


ساتھ ہزار سے زیادہ عربی الفاظ کے معانی و تشریح
مجاورات ضرب الامثال بمعنیہ جدید عربی الفاظ

المعجم عربی اردو

مختصر جامع علم و ادب
الکریم مارکیٹ اردو بازار لاہور ۷۳۱۲۱۶۹

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب	المختار عربی اردو
تصنیف	لویس معلوف
ترجمہ	مولانا ابوالفضل عبد الحفیظ علیاوی
طابع	نذیر محمد
مطبع	افضل شریف پرنٹرز



7224228	مکتبہ رحمانیہ اقراء سینٹر، غزنی سٹریٹ، اردو بازار، لاہور
7221395	
7223506	اسلامی کتب خانہ فضل الہی مارکیٹ، چوک اردو بازار، لاہور
7230718	
7211788	مکتبہ احلم ۱۸- اردو بازار، لاہور
7231788	

استدعا

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، انسانی طبقات اور بساط کے مطابق کتابت
 طبع و تصحیح اور جلد سازی میں پوری پوری احتیاط کی گئی ہے۔
 بشری تقاضے سے اگر کوئی غلطی نظر آئے یا صفحات درست نہ ہوں تو ازراہ
 کرم مطلع فرمادیں۔ ان شاء اللہ ازالہ کیا جائے گا۔ نشانی کے لیے ہم بے حد شکر گزار
 ہوں گے۔
 (ادارہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرض ناشر

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَىٰ وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰی

ابعد! تقریباً دس سال ہوئے میں مدرسہ مصباح العلوم بریلی میں طلبہ کی خدمت پر مامور تھا کہ بعض بزرگوں اور عزیز طلبہ نے اصرار کے ساتھ خواہش کی کہ ”المنجد“ کے طرز پر ایک لغت کی کتاب ترتیب دی جائے جس میں ترجمہ اردو میں ہو۔

مولانا ملیا دہلی کے یہی وہ الفاظ ہیں جنہوں نے ہمیں اس چیز پر آمادہ کیا کہ مولانا کی ”مصباح اللغات“ جو اس سے پہلے ”خزینہ علم وادب“ شائع کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہے کا موازنہ المنجد سے کیا جائے تاکہ اس چیز کا پتہ چل سکے کہ دونوں کتابوں میں کتنا فرق ہے؟ اس کام کیلئے درس نظامی کے ایک طالب علم ”حافظ قاری قاسم صاحب“ کی مدد لی گئی جنہوں نے بے شمار ایسے الفاظ کی نشاندہی کی جو مولانا نے ”مصباح اللغات“ لکھتے وقت حذف کر دیئے گئے لیکن المنجد کے عربی نسخے میں موجود تھے۔ انہی بھائی نے عربی نسخے شائع کردہ ”دارالمشرق بیروت“ پر نہ صرف یہ کہ ان الفاظ کی نشاندہی کی جو مولانا نے حذف کر دیئے تھے بلکہ ساتھ ساتھ ”مصباح اللغات“ شائع کردہ ”خزینہ علم وادب“ پر ایسے الفاظ بھی نشان زد کر دیئے جو مولانا نے دیگر لغت کی کتابوں سے لئے تھے اور المنجد میں موجود نہیں تھے انہیں ہم نے حذف کر دیا۔

اس کام پر تقریباً ایک سال کا عرصہ لگ گیا۔ اور ان حصوں کا ترجمہ کروانے کا مرحلہ آیا تو پتہ چلا کہ اکثر حصے جو مولانا نے ”المنجد“ سے حذف کئے تھے وہ یا تو ”سائنسی اصطلاحات“ تھیں یا پھر نباتات و جمادات کے نام اور بہت کم ایسا حصہ پایا گیا جو عام عربی میں مستعمل تھا اور ایسی اصطلاحات کا اردو میں ترجمہ کرنا فقط عربی زبان سے واقفیت کی بناء پر بے حد مشکل تھا۔

اللہ عزوجل کے بے حد شکر گزار ہیں کہ اسی عرصے میں اللہ عزوجل نے مولانا عبدالصمد صارم الازہری (فاضل دارالعلوم دیوبند) جیسی نابغہ روزگار ہستی سے (ان کی کتابوں کی پبلشنگ کے سلسلے میں) رابطہ کروا دیا۔ مولانا نے دو چار دفعہ کے انکار کرنے کے بعد المنجد کی تکمیل کے سلسلے میں حامی بھری۔ یقیناً جاننے کہ ۸ سال کی لگ بھگ عمر میں مولانا نے جب بھی حافظ صاحب گئے (صبح دوپہر شام) مولانا چاہے آرام فرما رہے ہوں یا بیمار ہوں انہوں نے کبھی انکار نہیں کیا اور فوراً عربی الفاظ کا ترجمہ لکھوانا شروع کر دیتے۔

اللہ عزوجل مولانا (مرحوم) کو اجر عطا کرنے لیکن اس کے ساتھ ہی ہم مولانا کے اہل خانہ کے بھی بے حد شکر گزار ہیں کہ وہ کبھی بھی ماتھے پہ ٹمکن تک نہیں لاتے تھے کہ اس عمر میں والد محترم سے کافی مشقت کا کام لیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کے اہل و عیال کو دنیا و آخرت میں بلند درجے عطا فرمائے بالخصوص ان کی صاحبزادی پروفیسر عاصمہ فرحت صاحبہ کو کہ اپنی تدریسی مصروفیات کے باوجود مولانا کی کتابوں اور تحقیقی کاموں میں آخر وقت تک ان کی مددگار رہیں۔

اسکے علاوہ اس کتاب کی تکمیل میں چوہدری خورشید صاحب (سابق کمشنر ٹیکس و اینچارج باغ جناح ہارنی کچھلر سوسائٹی) کے بھی بے حد شکر گزار ہیں کہ ان سے جب بھی رابطہ کیا گیا انہوں نے پودوں کے اردو یا انگریزی میں مستعمل نام بتانے میں ہر ممکن راہنمائی فرمائی۔


”خزینہ علم وادب“ نے اپنے آغاز ۱/۲۵/۱۹۹۵ء سے ہی یہ مصمم ارادہ کر رکھا ہے کہ کتابوں کو اعلیٰ معیار پر شائع کیا جائے گا۔ اس کتاب کو بھی حتی الامکان اغلاط سے مبرا کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن اگر کسی صاحب علم کو غلطی معلوم ہو تو ادارہ کو ضرور آگاہ کریں۔

”المنجد کی تیاری میں جن حضرات نے بھی داسے دور سے سخنے مدد فرمائی اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم سے نوازے۔“

حاجی نذیر محمد ولد سعد اللہ

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب	المسجد عربی اردو
تصنیف	لویس معلوف
ترجمہ	مولانا ابوالفضل عبد الحفیظ بلیاوی
طابع	نذیر محمد
مطبع	افضل شریف پرنٹرز



7224228
7221395

7223506
7230718

7211788
7231788

مکتبہ رحمانیہ اقراء سینٹر، غزنی سٹریٹ، اردو بازار، لاہور

اسلامی کتب خانہ فضل الہی مارکیٹ، چوک اردو بازار، لاہور

مکتبۃ العلم ۱۸۔ اردو بازار، لاہور

استدعا

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کتابت و طباعت، تصحیح اور جلد سازی میں پوری پوری احتیاط کی گئی ہے۔
بشری تقاضے سے اگر کوئی غلطی نظر آئے یا صفحات درست نہ ہوں تو ازراہ کرم مطلع فرمادیں۔ ان شاء اللہ ازالہ کیا جائے گا۔ نشاندہی کے لیے ہم بے حد شکر گزار ہوں گے۔
(ادارہ)

المنجد کے رموز و اشارات

باب سمع بسمع	مراد (س)	مصدر	معنی سے مراد	اسم فاعل	فا سے مراد
باب کوم بکوم	مراد (ک)	باب ضرب بضر	مراد (ض)	اسم مفعول	مفع سے مراد
باب حسب بحسب	مراد (ح)	باب نصر بنصر	مراد (ن)	جمع	ح سے مراد
		باب فتح بفتح	مراد (ف)	جمع الجمع	ح سے مراد

اگر کسی کلمہ کی تلاش ہو اور وہ مجرد ہو یا اگر مزید ہو تو مجرد بنا کر یا پہلا حرف بدلا ہوا ہو تو اصل کی طرف لوٹنا کر پہلے حرف کے باب میں تلاش کرو۔

بعض قیاسی احکام

لغت عربی کے متعلم کو فن صرف کے قواعد سے اچھی طرح واقف ہونا چاہئے تاکہ جن قیاسی چیزوں کے ذکر کو چھوڑنے کی عام عادت ہے ان کے استعمال میں غلطی نہ ہونے پائے۔ لیکن پھر بھی بعض قواعد قائمہ کے لئے یہاں لکھ دیئے جاتے ہیں مجرد کو مزید بنا دینے سے حسب ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں:

- (۱۵) تنخیر: فاعل کا کسی فعل کو اپنی ذات کے لئے کرنا۔
- (۱۶) تخیل: فاعل کا اپنی ذات میں ماخذ کا حصول دکھانا یا جتاننا جس سے صرف دکھا دیا یا بناوٹ مقصود ہو۔
- (۱۷) تدریج: کسی فعل کو آہستہ آہستہ کرنا۔
- (۱۸) تصرف: ماخذ کے حصول میں کوشش کرنا۔
- (۱۹) تمکل: ماخذ کو کام میں لانا یا ماخذ سے کام لینا۔
- (۲۰) تکلف: ماخذ میں تصنع یا بناوٹ ظاہر کرنا۔
- فائدہ: تکلف اور تخیل میں فرق یہ ہے کہ تکلف میں جو تصنع ہے وہ مرغوب فعل ہوتا ہے مگر تخیل میں جس فعل کا ارتکاب ہوتا ہے وہ محض دکھاوا اور جعل ہوتا ہے۔
- (۲۱) حسان: کسی چیز کے متعلق یہ گمان کرنا کہ وہ ماخذ کے معنی سے موصوف ہے۔
- فائدہ: حسان اور وجدان میں فرق یہ ہے کہ وجدان میں یقین پایا جاتا ہے اور حسان میں شک و گمان۔
- (۲۲) صیغہ: کسی امر کا ماخذ کے وقت میں واقع ہونا یا اس وقت میں پہنچنا۔
- (۲۳) سلب: کسی چیز سے ماخذ کو دور کرنا۔
- (۲۴) صیرورت: صاحب ماخذ ہونا۔
- (۲۵) طلب: ماخذ کو طلب کرنا چاہنا۔
- (۲۶) قصر: اختصار کے لئے کسی کلمہ کا مرکب سے اشتقاق کے طور پر بنانا۔
- (۲۷) لزوم و علاج: فعل میں جو ارج یعنی اعضاء کے کام کا اثر پایا جاتا ہے۔
- (۲۸) لیاقت: کسی چیز کا ماخذ کے لائق ہونا۔
- (۲۹) مبالغہ: کسی امر کی کیفیت یا اس کی مقدار کی زیادتی کو بیان کرنا۔
- (۳۰) مطاوعت: ایک فعل کے دوسرے فعل کو لانا۔ جس سے ظاہر ہو کہ

- (۱) تعدیہ: لازم سے متعدی ہونا یا اگر فعل متعدی ہو تو ایک اور مفعول کو اضافہ ہونا۔
- (۲) تصبیر: صاحب ماخذ بنا دینا۔
- (۳) تعریض: مفعول کو ماخذ کے محل اور موقع میں لے جانا۔
- (۴) وجدان: کسی چیز میں ماخذ کی صفت کا پایا جانا۔
- (۵) ابتداء: کسی فعل کی ابتداء اسی باب سے ہونا بغیر اس کے کہ وہ فعل خلائی مجرد سے آیا ہو اور اگر وہ مادہ مجرد سے آیا ہو تو وہاں وہ معنی نہ ہوں جو خلائی مزید میں ہیں۔
- (۶) امتحان: کسی چیز کو ماخذ بنانا یا ماخذ میں لینا۔
- (۷) اشتراک: دو مضمونوں کا کسی کام میں شریک ہونا اس طرح کہ ہر ایک فاعل اور مفعول دونوں کی حیثیت رکھتا ہو۔
- (۸) اقتساب: کسی فعل کی ابتداء اسی باب سے ہونا اور خلائی مجرد مطلقاً کسی باب سے نہ آنا۔
- (۹) الباس ماخذ: کسی چیز کو ماخذ پہنانا۔
- (۱۰) بلوغ: ماخذ میں آنا یا ماخذ میں پہنچنا۔
- (۱۱) تجہب: ماخذ سے پہنچنا۔
- (۱۲) تحول: کسی چیز کا مین ماخذ ہونا یا مائل ماخذ ہونا۔
- (۱۳) تحویل: کسی چیز کو ماخذ یا مائل ماخذ بنا دینا۔
- (۱۴) تحلیط: کسی چیز کو ماخذ سے آراستہ کرنا۔

- (۸) سلب: جیسے قَسْرُذِ الْإِبِلِ اس نے اونٹ سے چھڑی کو دور کیا۔ (۲۳)
- (۹) صیرورت: جیسے نَوَزُ الشَّجَرِ = درخت ٹھونڈا رہ گیا۔ (۲۳)
- (۱۰) قصر: جیسے هَلَّلَ اس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ (۲۶)
- (۱۱) مبالغہ: جیسے جَوَّلَ = وہ بہت گھوما۔ (۲۹)
- (۱۲) نسبت مبالغہ: جیسے فَسَقْنِي = اس نے مجھے بدکار کہا۔ (۳۲)

باب مفاعلة

- (۱) اشتراک: جیسے قَاتِلُ زَيْدٍ عَمْرُوًا = زید نے عمرو سے مقاتلہ کیا اور عمرو نے زید سے (۷)
- (۲) موافقت مجز: جیسے سَافِرٌ بِمَعْنَى سَفَرٍ۔
- موافقت افعال: جیسے بَاعَدْتَهُ: بمعنی أَبْعَدْتَهُ
- موافقت فاعل: جیسے ضَاعَفَ: بمعنی ضَعَّفَ: (۳۱)

باب تفعیل

- (۱) ابتداء: جیسے تَكَلَّمْتُ = اس نے کلام کیا۔ (۵)
- (۲) امتحان: جیسے تَوَسَّدَ الخَجَرَ = اس نے چھر کو تکیہ بنایا (۶)
- (۳) تجب: جیسے تَأْتَمُّ = اس نے گناہ سے پرہیز کیا۔ (۱۱)
- (۴) تحول: جیسے تَنَصَّرَ = وہ نصرانی ہو گیا۔ (۱۲)
- (۵) تعمل: جیسے تَحْتَمُّ = اس نے انگوٹھی پہنی۔ (۱۹)
- (۶) تدریس: جیسے تَجَرَّعَ = اس نے گھونٹ کر کے پیا۔ (۱۷)
- (۷) تکلف: جیسے تَشَجَّعَ = وہ بہادر بنا۔ (۲۰)
- (۸) صیرورت: جیسے تَمَوَّلَ = وہ مالدار ہو گیا۔ (۲۳)
- (۹) مطاوعت فاعل: جیسے عَلِمْتَهُ فَتَعَلَّمْتُ میں نے اسے سکھایا اور وہ سیکھ گیا۔ (۳۰)

باب تفاعل

- (۱) ابتداء: جیسے تَبَارَكَ اللهُ = اللہ بڑی برکت والا ہے (مجرد بربک = اونٹ کا بیٹھنا) (۵)
- (۲) تشارك: جیسے تَشَاتَمَا = دونوں نے ایک دوسرے کو گالی دی۔ (۳۳)
- (۳) تخفیل: جیسے تَمَارَضُ = اس نے اپنے آپ کو مریض ظاہر کیا۔ (۱۶)
- (۴) مطاوعت فاعل: جیسے بَاعَدْتَهُ فَبَاعَدَ = میں نے اسے دور کیا وہ دُور ہو گیا۔ (۳۰)

باب انفعال

- (۱) ابتداء: جیسے انطلق = وہ گیا۔ (مجرد طلق) (۵)

مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا۔

- (۳۱) موافقت: کسی فعل کا ہم معنی ہونا۔
- (۳۲) نسبت مبالغہ: کسی چیز کا ماخذ سے منسوب ہونا۔
- (۳۳) اعطاء ماخذ: ماخذ دینا۔
- (۳۴) تشارك: دو چیزوں کا فعل کے صدور میں شریک ہونا۔

باب افعال

(تعریف کے لئے سامنے لکھے ہوئے نمبر کو دیکھو)

- (۱) ابتداء: جیسے اشفق وہ ڈر گیا (مجرد شفق = مہربانی کرنا) (۵)
- (۲) بلوغ: جیسے اغترق: عراق میں پہنچا (۱۰)
- (۳) تصبیر: جیسے اشرك النعل = اس نے تسمہ دار جو تانا یا۔ (ماخذ شراک بمعنی تسمہ) (۲)
- (۴) تعدیہ: جیسے اخروج = نکالا۔ (۱)
- (۵) تدریس: جیسے ابعت الجمار = میں گدھے کو بیچنے کی جگہ لے گیا۔ (۳)
- (۶) صیونیت: جیسے اخصد الزرع = کھیتی کے کٹنے کا وقت آ گیا۔ (۲۲)
- (۷) لیاقت: جیسے لام الفرع = سردار قابل ملامت ہوا (۲۸)
- (۸) سلب: جیسے اشكيتہ = میں نے اس کی شکایت دور کی۔ (۲۳)
- (۹) صیرورت: جیسے البین البقر = گائے دودھ والی ہو گئی۔ (۲۳)
- (۱۰) مبالغہ: جیسے اتمم النخل = کھجور کے درخت میں بہت سی کھجوریں لگیں۔ (۲۹)
- (۱۱) نسبت مبالغہ: جیسے اخصرتہ = میں نے اسے کفر سے نسبت دی۔ (۳۲)
- (۱۲) وجدان: جیسے ابخلتہ = میں نے اسے بخیل پایا۔ (۳)
- (۱۳) موافقت مجز: جیسے اقلت البيع بمعنی قلنتہ یعنی لمستخه (۳۱)

باب تفعیل

- (۱) ابتداء: جیسے تكلّم = اس نے کلام کیا (مجرد تكلم = زخمی کرنا) (۵)
- (۲) الباس ماخذ: جیسے جلسل الفرس = اس نے گھوڑے کو جھول پہنائی۔ (۹)
- (۳) بلوغ: جیسے تخيم = وہ خیمہ میں آیا۔ (۱۰)
- (۴) تحول: جیسے نصر = اس نے نصرانی بنایا۔ (۱۳)
- (۵) تخلیل: جیسے ذهب = اس نے سہری بنایا۔ (۱۳)
- (۶) تصحیر: جیسے وتر الفوس = اس نے کمان کو زہ دار بنایا۔ (۲)
- (۷) تعدیہ: جیسے فرحني = اس نے مجھے خوش کیا۔

- موافقت افعال: جیسے اَجَابَ و اِسْتَجَابَ (۳۱)
 (۱۱) ابتداء: جیسے اِسْتَعَانَ = زیر نافر کے بال کاٹنے۔ (۵)

باب افعال

- (۱) مبالغہ: جیسے اِسْوَدَ اللَّيْلُ = رات بہت تاریک ہوگئی۔ (۲۹)
 فائدہ: اکثر یہ باب الوان و میوب کے لئے آتا ہے جیسے اِخْضَرَ 'اِبْطَنُ'
 اِخْوَلُ اور ہمیشہ لازم ہوتا ہے۔

باب اِفْعِيَال

- (۱) مبالغہ: جیسے اِخْتَوَذَبَ = بہت کبڑا ہو گیا۔ (۲۹)
 (۲) موافقت مجرد: جیسے اِخْلَوْنِي التَّمْرَ يَمَعْنِي خَلَا (۳۱)

باب اِفْعْوَال

- (۲) مبالغہ: جیسے اِجْلَوْدُ = وہ بہت تیز دوڑا۔ (۲۹)

باب اِفْعِيَال

- (۱) مبالغہ: جیسے اِخْمَارٌ بہت سرخ ہوا۔ (۲۹)
 یہ باب الوان و میوب کے لئے مخصوص ہے۔

باب تفعّل

- (۱) مطاوعت: جیسے ذَخِرْ جُنَّةً فَتَدَخِرْجَ مِثْلِهِ سے لڑھکا دیا وہ
 لڑھکا گیا۔ (۳۰)
 علماء صرف کے نزدیک ان کے علاوہ اور بھی فوائد ہیں جن کو
 تطویل کے خوف سے نظر انداز کر دیا گیا۔
 اور ان ابواب مزید فیر کے لئے یہ ضروری نہیں کہ ہر مجرد سے بنا لیا
 جائے بلکہ اس کا مدار سماع اور کتب لغت پر ہے۔

مشققات

- فعل سے جو اسم مشتق ہوتے ہیں وہ دس ہیں (۱) مصدر
 (۲) اسمُ مَرَّةٍ (۳) اسمُ نَوْعٍ (۴) ظَرْفُ مَكَانٍ وَظَرْفُ زَمَانٍ (۵) اسم
 آلہ (۶) اسمُ فَاعِلٍ (۷) اسمُ مَفْعُولٍ (۸) صِفَتٌ مُشَبَّهٌ (۹) اسمُ تَفْضِيلٍ
 (۱۰) مبالغہ۔

- مثلاً ثی مجرد کے مصادر قیاسی نہیں ان کے بہت سے اوزان ہیں
 اور ان کا مدار سماع پر ہے لیکن یوں ضبط میں لایا جا سکتا ہے کہ عموماً:
 (۱) جو پیش کے معنی پر دلالت کرتے ہوں ان کا وزن فِعَالَةٌ ہے جیسے
 زِرَاعَةٌ تِجَارَةٌ حَيَاكَةٌ
 (۲) جو امتناع کے معنی پر دلالت کرتے ہوں ان کا وزن فِعْعَالٌ ہے۔
 جیسے آباءُ شُرَادُ جَمَاعُ۔

- (۲) لزوم و علاج: جیسے اِنْبَسَرَ = وہ ٹوٹ گیا۔

- (۳) مطاوعت فعل: جیسے كَسْرَتُهُ فَانْكَسَرَ = میں نے اسے توڑا وہ
 ٹوٹ گیا۔

- مطاوعت افعال: جیسے اَطْلَقَ الْبَابَ فَانْفَلَقَ = اس نے دروازہ
 بند کیا اور وہ بند ہو گیا۔ (۳۰)

- فائدہ = باب افعال ہمیشہ لازم ہوتا ہے متعدی نہیں اور ہمیشہ ایسے معانی
 کے لئے آتا ہے جن کا تعلق اعضاء ظاہری سے ہو۔

باب افعال

- (۱) اِحْجَازٌ: جیسے اِجْحَزَ الْفَارُ = چوہے نے بل بنایا۔ (۶)
 (۲) تخخیر: جیسے اِكْتَمَالَ السَّعِيرُ = اُس نے اپنے لئے کھانا پے
 (۱۵)
 (۳) تصرف: جیسے اِكْتَسَبَ الْفِضْلُ = اس نے کوشش کر کے فضیلت
 حاصل کی۔ (۱۸)
 (۴) مطاوعت فعل: جیسے غَمَمَنَهُ فَاغْتَمَّ = میں نے اسے غمگین کیا اور
 وہ غمگین ہوا۔ (۳۰)
 (۵) طلب: جیسے اِكْتَفَلْنَا نَا = اس نے فلاں سے مشقت طلب کی۔
 (۲۵)
 (۶) موافقت فعل: جیسے اِجْتَذَبَ بمعنی جذب
 موافقت تفاعل: جیسے اِخْتَصَمَ بمعنی تَخَاصَمَ (۳۱)

باب استفعال

- (۱) طلب جیسے اسْتَطْعَمْتَهُ = میں نے اس سے کھانا طلب کیا۔
 (۲۵)
 (۲) لیاقت جیسے اسْتَرْقَعَ التَّوْبَ = کپڑا اتار بل پیوند ہوا۔ (۲۸)
 (۳) وجدان: جیسے اسْتَكْرَمْتَهُ = میں نے اس کو کرم سے متصف پایا۔
 (۳)

- (۴) صہان: جیسے اسْتَخْسَنْتُهُ = میں نے اس کو اچھا گمان کیا (۲۱)
 (۵) تحول: جیسے اسْتَخْجَرَ الطَّيْنَ = مٹی پتھر بن گئی (۱۲)
 (۶) اِحْجَازٌ: جیسے اسْتَوْطِنَ الْقَرْيَةَ، اس نے دیہاتوں کو وطن بنا لیا۔
 (۶)

- (۷) تکلف: جیسے اسْتَجْرَأَ = اُس نے جرأت دکھلائی۔ (۲۰)
 (۸) قسر: جیسے اسْتَرْجَعَ = اس نے اِنَا لِلَّهِ وَ اِنَا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہا۔
 (۲۶)

- (۹) مطاوعت افعال: جیسے اَقَمْنَاهُ فَاَسْتَقَامَ = میں نے اُسے سیدھا کیا وہ
 سیدھا ہو گیا۔ (۳۰)

- (۱۰) موافقت مجرد: جیسے قَرَّ وَاَسْتَقَرَّ (۳۱)

- (۳) جو اضطراب کے معنی پر دلالت کرتے ہوں ان کا وزن قَعْلَان ہے جیسے غَلْيَان 'جولان' خفقان۔
- (۴) جن کی دلالت امراض پر ہوں ان کا وزن فَعَال ہے جیسے ضِدَاع 'زکام' دوار۔
- (۵) جن کی دلالت سیر پر ہوں ان کا وزن فَعَال اور فَعِيل ہے جیسے زَجِيل 'و ذمیل'۔
- (۶) جن کی دلالت آواز پر ہوں ان کا وزن فَعَال اور فَعِيل ہے جیسے ضِرَاح 'خوار' زَيْبِر 'بیم'۔
- (۷) جن کا مدلول رنگ ہوں ان کا وزن فَعْلَة ہے جیسے حُمْرَة 'رُزْقَة' خُضْرَة۔
- اور اگر ان معانی پر دلالت نہ ہو تو عموماً
- (۱) فَعْل کا مصدر فَعُولَة اور فَعَالَة کے وزن پر آتا ہے جیسے سُهُولَة نِبَاهَة 'فَصَاحَة'۔
- (۲) فَعْل لازمی کا مصدر فَعْل کے وزن پر ہے جیسے فَرَح 'عَطَش' بَلَج۔
- (۳) فَعْل لازمی کے مصدر فَعُول کے وزن پر جیسے فَعُوذ 'خُرُوج' نَهْوَض۔
- (۴) فَعْل اور فَعْل کے وزن پر جیسے فَهْم 'نَضْر'۔

تَأْيِيًا تَغَاضِيًا تَغَاضِيًا۔
 الْفَعْلُ كَامَصْدَرِ الْفِعَالِ 'انْفَعَلَ' كَالْفِعَالِ 'انْفَعَلَ' كَالْفِعَالِ اور الْفَعْلُ كَالْفِعَالِ ہے جیسے اشترک اشترَاكَ. انطلق انْطَلَقًا 'اِحْتَدَى وَدَب' اِحْتَدَىٰهَا اور اسْوَدَّ اسْوَدَّهَا
 اِسْتَفْعَلَ كَامَصْدَرِ اِسْتَفْعَالَ ہے لیکن تین کلمہ حرف علت ہو تو الف سے بدل کر حذف کر دیتے ہیں اور آخر میں تا بڑھا دیتے ہیں جیسے اِسْتَقَامَ اِسْتِقَامَةً
 فَعْلَل كَامَصْدَرِ فَعْلَلَة اور فَعْلَل ہے جیسے ذَخِرَج ذَخِرَجَة وَذَخِرَ اَجْمًا دوسرا وزن صرف مشاعرے ہونے کی صورت میں قیاسی ہے ورنہ سائی جیسے وَسْوَسَ وَسْوَسَةً اور وَسْوَسَا
 تَفَعَّل كَاتَفَعَّلًا 'اِنْفَعَلَ' كَالْفِعَالِ اِنْفَعَلَ كَالْفِعَالِ ہے تَدَحْرَج تَدَحْرَجًا. اِحْرَجَم اِحْرَجَمًا. اِقْشَعَرَ اِقْشَعِرًا
 فعل مجہول کے لئے مصدر کا کوئی خاص وزن مقرر نہیں۔ فعل معروف کا مصدر ہی اس کا کام بھی دیتے ہیں جیسے ضَرَبَ ضَرْبًا جیسا کہ کہا جاتا ہے۔ ضَرَبَ ضَرْبًا

مصدر میمی

ثلاثی مجرد سے مصدر میمی مفعول کے وزن پر آتا ہے جیسے منظر 'مضرب' مرمی اس قاعدہ سے سات الفاظ مبعی 'مَوْجِع' 'مَيْسِر' 'مَيْسِر' 'مَيْسِر' 'مَوْقِف' 'مَقْبِل' مستثنیٰ ہیں۔
 مثال وادی سے مفعول کے وزن پر خواہ مضارع کا عین کلمہ کسور ہو یا مفتوح جیسے صَوْلَة 'مَوْجِع' 'مَوْجِع' ثلاثی مجرد کے علاوہ دوسرے ابواب سے مضارع مجہول کے وزن پر بجائے علامت مضارع کے ہم مضموم لگا کر جیسے مُنْحَدِر 'مُصْطَبِر' مزدحم۔

اسم مرۃ و اسم نوع

اسم مرۃ وہ مصدر ہے جو ایک مرتبہ فعل کے واقع ہونے کو ظاہر کرے اور اسم نوع وہ ہے جو فعل کی ہیئت اور نوع کو بتلائے۔ ثلاثی مجرد سے اسم مرۃ کا وزن فعلیہ کے وزن پر آتا ہے جیسے ضَرْبَتْ ضَرْبَةً 'جَلَسَتْ جَلَسَةً'

ثلاثی مجرد کے علاوہ دوسرے ابواب سے جس باب کا اسم مرۃ بنانا مقصود ہو اسی باب کے مصدر کے وزن پر تاہ کی زیادتی کے ساتھ لاتے ہیں جیسے النَّفْسُ الْبِطَانَةُ انْطَلَقَتْ انْطَلَقَةً اور اگر ثلاثی وغیرہ کے مصادر کے آخر میں تاہ ہو تو اسم مرۃ لانے کی صورت میں کسی ایسی چیز کا لانا ضروری ہے جس سے وحدت ظاہر ہو جیسے ضَرْبَتْهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً قَاتِلَتْهُ

غیر ثلاثی کے مصادر

ثلاثی کے علاوہ سارے مصادر قیاسی ہیں۔ فعل کا مصدر تفعلیل ہے جیسے قَبِلَ تَقْبِيلًا اور تَفَعَّلَ کے وزن پر بھی آتا ہے مگر کرم جیسے وَسَخَ تَوْسَعَةً قَدَّمَ تَقْدِيمًا اگر مہوز الّام ہو تو تفعّلہ کا وزن زیادہ اور تفعّل کا کم آتا ہے جیسے نَبَا تَنْبِئَةً و طَا تَوَطُّئَةً هُنَا تَهْنِئَةً اور اگر ناقص ہو تو صرف تفعّل ہی کا وزن آتا ہے۔ جیسے حَلَى تَحْلِيَةً زَكَى تَزْكِيَةً اور اگر اجوف ہو تو صرف تفعّل کا وزن آتا ہے جیسے قَوْمَسَمٌ تَقْوِيمًا سَوَدَّ تَسْوِيدًا۔

فَاعِل كَامَصْدَرِ فَعَالِ وَمَفَاعِلَة ہے جیسے قَاتَلَ قِتَالًا وَ مَقَاتَلَة ہے لیکن جن سواد میں فاعلہ یاہ ہو وہاں مَفَاعِلَة کا وزن متعین ہے جیسے بَاسَرًا مَيَاسِرَةً مَيَاسِرَةً اور بِنَاوَمٌ مَيَاوَمَةٌ وَ يَوْمَانِثَاءٌ ہے۔

افعل کا مصدر افعلال ہے جسے اَحْكَمَ اِحْكَمًا اور اگر عین کلمہ میں حرف علت ہو تو اس کی حرکت بائیں کو نقل کر کے الف سے بدل دیتے ہیں دو الف کے جمع ہونے کی وجہ سے ایک کو حذف کر دیتے ہیں اور اس کے عوض میں آخر میں تا بڑھا دیتے ہیں جیسے اَمَسَات 'اَمَسَات' اَعْمَاطُ اَعْمَاطُ اِشَارَةُ اِشَارَةُ

تَفَعَّل كَامَصْدَرِ تَفَعَّلَ اور تَفَاعَلَ كَاتَفَاعَلَ ہے لیکن ان دونوں میں جب لام کلمہ حرف علت ہو تو یا سے بدل کر بائیں کو کسرہ دیتے ہیں جیسے تَأَنَّى 'تَأَنَّى'

مقاتلة لا غير وما التفت اليه الا التفتاة واجبة اجابة فقط.

اسم نوع کا وزن ثلاثی مجرد سے مفعلة کے وزن پر جیسے وقف وقفه الاسد و منشی مبنية المختال.

ثلاثی مجرد کے علاوہ دوسرے ابواب سے اسم مرۃ کے وزن پر جیسے حسن الانطلاقه قبيح المعاشرة.

ظرف مکان و ظرف زمان

ظرف مکان وہ ہے جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ کو بتلائے اور ظرف زمان وہ ہے جو فعل کے واقع ہونے کے زمانہ کو ظاہر کرے۔

ثلاثی مجرد سے ظرف خواہ زمانی ہو یا مکانی مفعول کے وزن پر آتا ہے جبکہ مضارع کا عین مضموم ہو یا مفتوح جیسے منصرف مفتتح منفتح اور اگر مضارع کا عین کسور ہو تو مفعول کے وزن پر جیسے مجلس منزل.

اس قاعدہ سے الفاظ مندرجہ ذیل مستثنیٰ ہیں ان سب کا وزن مفعول ہے باوجودیکہ ان کے مضارع کا عین مضموم ہے مسجد مشرقی مغرب مطبلع مجزور مرفق مرفق منسک منسک منبت مسقط.

مثال سے ظرف زمان و مکان ہمیشہ مفعول کے وزن پر اور ناقص سے ہمیشہ مفعول کے وزن پر جیسے موعدا موعجل مطوی مومنی.

اور ثلاثی مجرد کے علاوہ دوسرے ابواب سے مصدر کی کسی مانند جیسے اذخبل سے مذخبل. انخرج سے منخرج. اخذع سے منخذع.

کسی جگہ میں کسی چیز کی کثرت کو ظاہر کرنے کے لئے مفعولہ کا وزن مقرر ہے جیسے مقبرہ جہاں قبریں زیادہ ہوں۔ ماہلہ = جہاں اونٹ زیادہ ہوں۔ مفعاة = جہاں سانپ زیادہ ہوں۔ مسبعة = جہاں ورنڈے زیادہ ہوں۔ کہا گیا ہے کہ یہ وزن ثلاثی مجرد و مزید سے قیاسی ہے اور بعض کا قول ہے کہ کثرت سے آتا ہے مگر قیاسی نہیں۔

اسم آلہ

کام کرنے کے آلے اور اوزار کا نام اسم آلہ ہے یہ صرف ثلاثی مجرد و متحدی سے بنتا ہے اس کے تین وزن ہیں۔ یفعل جیسے مبرود۔ یفعلان جیسے مفساح۔ یفعلتہ جیسے مجسنة اور یہ اوزان بھی قیاسی نہیں۔ منخل منخل منخل منخله مدق منسط منازة منسط وغيره الفاظ اسامہ جامدہ کے مانند ہیں۔ ان کا فعل اسے اشتقاق نہیں اور اسم آلہ جو فعل سے مشتق نہ ہو اس کے لئے کوئی ضابطہ نہیں۔ بہت سے مختلف اوزان پر آتے ہیں جیسے قندوم بسکین فاس وغیرہ۔

اسم فاعل و اسم مفعول

اسم فاعل وہ ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس سے فعل واقع ہو اور ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پر آتا ہے جیسے ضارب قتيل ناصر.

ثلاثی مجرد کے علاوہ دوسرے ابواب سے مضارع معروف کے وزن پر علامت مضارع کے بجائے ميم مضموم لگانے سے بنتا ہے اور ماقبل آخر کسور ہوتا ہے جیسے مجتنب مستخرج مضرف.

اسم مفعول وہ ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہوا ہو اور ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پر آتا ہے جیسے منطوڑ منضوب منفتوح ثلاثی مجرد کے علاوہ دوسرے ابواب سے مضارع مجهول کے وزن پر علامت مضارع کے بجائے ميم مضموم لگانے اور ماقبل آخر کو مفتوح کر دینے سے بنتا ہے جیسے مقبل منكرم منذخوج.

تنبیہ (۱) قیاس کا تقاضا ہے کہ اسم فاعل اور اسم مفعول کا اشتقاق اپنے ہی فعل سے ہو خواہ مجرد ہو خواہ مزید۔ لیکن کچھ الفاظ بطور شدوذ کے دوسرے سے مشتق ہیں۔ مثلاً افعال سے مساجل. املح سے مبالع. ابلع سے مبالع. اغضب سے غایب. اخبہ سے مخبوت۔ اخبثہ سے منخبول. اخبثہ سے منخبول. اخبثہ سے منخبول. اخبثہ سے منخبول.

(۲) اسم مفعول مصدر کی ظرف زمان و مکان ثلاثی مجرد کے علاوہ دوسرے ابواب سے سب ایک ہی وزن پر آتے ہیں۔ امتیاز قرآن کی بناء پر ہوتی ہے۔

صفت مشبہ

صفت مشبہ وہ ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں صفت بطور شہوت کے ہو۔ ثلاثی سے اس کے اوزان سماجی ہیں مثلاً حسن کنونم لیسن منهل صعب لقیان غضبان کسول عطشی رؤف اگر مادہ کی دلالت لون یا غیب یا علیہ پر ہو تو اس کے لئے وزن فعل کا ہے جیسے أسود اعرج ابلج اور ثلاثی مجرد کے علاوہ دوسرے ابواب سے اسم فاعل کے وزن پر آتا ہے اور صفت مشبہ صرف ابواب لازمہ سے آتا ہے جیسے مطمئن مستقیم.

اسم تفضیل

اسم تفضیل وہ ہے جو بہ نسبت دوسرے کے موصوف کی صفت کی زیادتی پر دلالت کرے اس کو اصل التفضیل بھی کہتے ہیں۔ مذکر کا وزن فعل کا اور مؤنث کا وزن فعلی کا مقرر ہے اور صرف ثلاثی مجرد کے ابواب سے بنتا ہے اور وہ مادے جو رنگ عیب یا علیہ پر دلالت کرتے

(۳) فعیل اگر مفعول کے معنی میں ہو تو موصوف کے ساتھ مذکر و مؤنث میں ایک ہی حالت ہوگی جیسے "زید قتیبل و انت المرأة جریحا اور بغیر موصوف کے فرق کیا جائے گا جیسے جاء حبیب و حبیبہ۔
(۴) فاعل اگر فاعل کے معنی میں ہو تو موصوف کے ساتھ مذکر و مؤنث دونوں میں ایک ہی جیسے یحییٰ الہول / مریم الہول اور موصوف نہ ہو تو فرق کیا جائے گا۔ جیسے جاء بسول و بئولة اور اگر مفعول کے معنی میں ہو تو مذکر و مؤنث میں فرق کیا جائے گا خواہ موصوف ہو یا نہ ہو جیسے "هذا رسول و تلک رسولة. و جاء رسل و رسولة۔"

مذکر و مؤنث

اسم مذکر میں کسی علامت کی ضرورت نہیں۔ مؤنث کی تین علامتیں ہیں۔ تاء جیسے ظلمة، قوة، نعمة، قدرة الف مقسورہ جیسے عذریٰ، فضلیٰ، شجریٰ، عظمیٰ الف ممدودہ جیسے حمراء، سوداء، بیضاء، زرقاء۔

یہ تینوں علامتیں اسم کے آخر میں نکد ہوتی ہیں ہر وہ اسم جس کے آخر میں ان تینوں علامتوں میں سے کوئی ایک ہو وہ مؤنث ہے لیکن وہ اسما جو مردوں کے نام ہوں مذکر ہی رہتے ہیں اگرچہ ان کے آخر میں ان علامتوں میں سے کوئی علامت ہو جیسے طلحة، لخلہ، ارطیٰ وغیرہ۔
مؤنث کی دو قسمیں ہیں مؤنث لفظی، مؤنث معنوی، مؤنث لفظی وہ ہے جس میں علامت تانیث پائی جائے جیسا کہ اوپر کی مثالوں سے ظاہر ہے۔

مؤنث معنوی وہ ہے کہ جس میں کوئی علامت تانیث نہ ہو اور اسے اہل زبان مؤنث مانتے ہوں۔

وہ سارے اسما جو مؤنث کے اعلام ہوں جیسے مریم، زینب وغیرہ یا وہ اسما جو طبقہ ناکٹ کے ساتھ مختص ہوں جیسے أخت، أم وغیرہ یا وہ سارے اسما جو شہر اور قبیلہ کے نام ہوں جیسے شام، مصر، قریش وغیرہ۔ یا اعضاء انسانی میں سے تمام وہ اعضاء جو دو دو ہوں سب مؤنث معنوی ہیں لیکن اخیر کا حکم اکثری ہے اس لئے کہ صدغ، مریق، حاجب، خد، مؤنث نہیں۔

ان کے علاوہ کچھ اور بھی الفاظ مؤنث ہیں جن کو اعتراض نے جمع کیا ہے۔ (مولانا ذوالفقار احمد صاحب بھوپالی مرحوم و مقفور کی کتاب المسکر فی مایصلق بالمؤنث والمذکر اس سلسلہ میں بہت جامع کتاب ہے) یہاں پر سارے کا استقصاء تو بہت دشوار ہے، مشہور اسما درج ذیل ہیں

اتان، اذن، ارض، ارنب، اروی، است، اصعب، افعی، افق، بنو، باع، بنصر، ثعلب، جحیم، جہنم، حرب، خنصر، دار، دبر، ذراع، رجل، رخی، ریح، سعیر، سقر، سن، ساق، شمس، شمال، ضبع، عروض، عصا، عقب، عین، غول، فاس، فخذ، فلک، قدم، قدم

ہوں ان سے اسم تفضیل کا صیغہ نہیں آتا بلکہ اسی وزن پر صفت کا صیغہ آتا ہے۔ وہ ابواب یا وہ مادے جن سے اسم تفضیل کا صیغہ الفعل کے وزن پر نہیں آ سکتا ان سے اسم تفضیل کے معنی کو ظاہر کرنا ہو تو اس کے لئے قاعدہ یہ ہے کہ لفظ اشد یا اکثر یا انہی جیسے الفاظ کے بعد اس باب کا مصدر منصوب استعمال کرتے ہیں اشد سواداً، اشد اسبغواً

اسم تفضیل کا صیغہ معروف سے اور ثلاثی مجرد سے بنا کرتا ہے لیکن بعض الفاظ بطور شدوذ کے مجہول اور ابواب غیر ثلاثی سے آتے ہیں مثلاً "العوادح" میں احمد، حمد سے اور "حاتم اعطی من عمرو" میں اعطی سے اور "هذا اسفر انحصر من ذاک" میں انحصر، انحصر سے ماخوذ ہے اور کبھی اسم تفضیل اسم جامد سے بھی آتا ہے جیسے "سابا لبادية انوامہ" میں انواء، نوء سے ماخوذ ہے جس کے معنی پختہ کے ہیں۔
غیر و شر اصل میں انحصر اور اسر تھے۔ کثرت استعمال کی بنا پر دونوں سے ہمزہ ساقط ہو گئے کبھی اصل کے لحاظ سے ہمزہ کے بھی آتے ہیں۔

اوزان مبالغہ

مبالغہ وہ ہے جو موصوف کی زیادتی صفت پر دلالت کرے اس کے مشہور وزن یہ ہیں

فَعَالٌ جیسے عَلَامٌ، نَصَارٌ. فَعَالَةٌ جیسے عَلَامَةٌ وَفَهَامَةٌ. فَعِيلٌ جیسے صَبِيقٌ وَسَكِيرٌ. مَفْعِيلٌ جیسے مَسْكِينٌ وَ مَغْطَبٌ. مَفْعَالٌ جیسے مَكْسَالٌ وَ مَقْدَامٌ. فَعْلَةٌ جیسے ضَحْكَةٌ وَ ضَجْنَةٌ. فَعْلٌ جیسے شَرَّةٌ وَ حَلِيزٌ. فَعِيلٌ جیسے رَجِيمٌ وَ عَظِيمٌ. فَعُولٌ جیسے كَذُوبٌ. وَ ذُؤُدٌ. فَاعِلَةٌ جیسے رَاوِيَةٌ. فَعْلٌ جیسے غَفْلٌ. فَعُولَةٌ جیسے فَرُوقَةٌ. مَفْعَلٌ جیسے مَسْحُوبٌ. فَاعُولٌ جیسے فَاوُوقٌ. فَعَالٌ جیسے كَبَّارٌ..... مبالغہ اوزان سہاٹی ہیں اور صرف ثلاثی مجرد سے آتے ہیں لیکن ذراک، اذرك سے معطاء اعطی سے۔ مہوان اهان سے۔ یحسنان احسن سے۔ وتلاف اتلف سے۔ وملاق. املق سے۔ میخلاق اختلف سے اور سمیع اسمع سے۔ نذیر اذیر سے۔ زھوق۔ ازھق سے شاذ ہیں۔

تشیبہ

(۱) بعض الفاظ مبالغہ میں تانیث کے لئے نہیں بلکہ تاکید مبالغہ کے لئے ہے جیسے علامہ، فہامہ
(۲) فعیل اگر فاعل کے معنی میں ہو تو مذکر و مؤنث میں فرق کیا جائے گا۔ خواہ موصوف کا ذکر ہو یا نہ ہو جیسے "رجل نصیر امرأة نصیرہ"۔ جاء نصیر و نصیرہ۔

پہلے الف زائدہ ہو جیسے صفراءِ خضراء میں الف اگر تانیث کے لئے ہو تو ہمزہ کو واؤ سے بدل لیں گے جیسے خضروا سے خضروان بشرطیکہ الف سے پہلے واؤ نہ ہو اور اگر ہو تو ہمزہ کا باقی رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ واؤ جمع نہ ہو جائیں۔ جیسے عشواء سے عشواءن۔
اور اگر ہمزہ اصلی ہو تو اس وقت بھی باقی رکھنا ضروری ہے جیسے لالا سے لالان۔ فُراء سے فُراءن

اور اگر ہمزہ نہ ہو تو اصلی ہو اور نہ تانیث کے لئے تو دونوں صورتیں جائز ہیں ہمزہ کو واؤ سے بدلنا بھی اور باقی رکھنا بھی جیسے سماء سے سماءن اور سماوان
ایسے اسماء جن کا لام کلمہ محذوف ہو اور اس کے عوض میں کچھ نہ ہو تو حشیہ بنانے میں لام کلمہ واپس آئے گا جیسے "اب" کہ اصل میں ابوتھا حشیہ کی حالت میں ایوان ہوگا ایسے ہی اخوان، حموان، غدوان لیکن ہم اور ید میں واپس نہیں آئے گا۔ فمان اور یدان ہی کہا جائے گا۔

اور ایسے اسماء جن کے محذوف کے عوض میں کچھ ہو تو حشیا اپنی حالت پر بنایا جائے گا مثلاً سنا "ابن" اسم ہیں سستان "ابنان" اسمان کہیں گے۔ کچھ ایسے اسماء ہیں جن کا حشیہ نہیں آتا۔ مثلاً بعض "جمع" جمع اور عرب "دیار" اور اسماء عدد اور اسم تفصیل جس کا استعمال من سے ہو جیسے الیدان افضل من الرجلین

جمع

جمع کی دو قسمیں ہیں جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع سالم وہ ہے جس میں واحد کا وزن باقی رہے زیادتی جو کچھ ہو وہ آخر میں اور جمع مکسر وہ ہے جس میں واحد کا وزن باقی نہ رہے کچھ نہ کچھ تغیر ہو جائے جمع سالم کی دو قسمیں ہیں جمع مذکر سالم جمع مؤنث سالم۔

جمع مذکر سالم

جمع مذکر سالم وہ ہے جس میں کلمہ کے آخر میں حالت رفعی میں واو ماقبل مضموم اور حالت نصبی و جری میں یا ماقبل مکسور اور ان دونوں کے بعد نون ہو جیسے "جاء مسلمون" رايت مسلمین و مردت بمسلمین

اس وزن پر جمع بنانے کے لئے شرط یہ ہے کہ اگر اسم محض ہو صفت کے معنی ملحوظ نہ ہوں تو تاء تانیث سے خالی ہو اور مرکب نہ ہو۔ اس لئے طلحہ باجودیکہ مذکر کا حکم ہے مگر واؤ نون سے جمع نہیں آئے گا اسی طرح معد کرب اور بعلبک وغیرہ میں یہ وزن نہیں آئے گا بلکہ جمع بنانا ہو تو لفظ ذوقی جمع بنا کر اس کلمہ کی طرف اضافت کریں گے مثلاً ذومعدی کرب

قوس 'کاس' کسف 'کوش' کف 'نار' نعل 'ناب' و رکب 'ید' یمین بنوع۔

ہوا کے لئے جو اسماء ہیں (مثلاً صباء، قبول، جنوب، دیور، شمال، ہیث، حرور، سوم، صرصر، مکہام) وہ بھی مؤنث سماں ہیں ابن الانباری فرماتے ہیں الوریع مؤنثہ لاعلامہ فیہا و كذلك صائر اسمائها الا الاعصار فانہ مذکر۔

ان کے علاوہ کچھ اسماء ہیں جن میں تذکیر و تانیث دونوں جائز ہیں ان میں سے مشہور یہ ہیں ایبا، ابہام، ازار، بلد، جراد، حال، بانوت، خز، درع، دلو، روح، زقاق، سبیل، سرنی، سراویل، سلاح، سکین، سلم، سلم، ساء، سوق، صاع، سخی، طرس، طریق، عجز، عضد، عقاب، عقرب، حنق، عکبوت، فردوس، فرس، فہر، قدز، قفا، قیس، کبد، السان، مسک، ملح، منجیق، موسیٰ، نفس، دراء
انہی کے ساتھ حروف تہجی کے اسماء بھی لائق ہیں۔

مشنی

مشنی وہ اسم ہے جو دو پر دلالت کرے۔ کسی اسم کو مشنی بنانا ہو تو اس کے آخر میں حالت رفعی میں الف اور حالت نصبی و جری میں یا ماقبل مفتوح اور دونوں حالتوں میں نون مکسور لائیں گے۔ جیسے "جاء الرجلان"۔ رايت الرجلین و مردت بالرجلین۔

اگر کوئی علم مرکب انسانی ہو تو جزء اول یعنی مضاف کو مشنی لائیں گے جیسے "عبدالاحد" عبدالرحمن
اور اگر مرکب بنائی یا مرکب انسانی ہو تو اپنی حالت پر رہیں گے اور ان سے پہلے مذکر میں ذوا اور مؤنث میں ذوات لائیں گے۔ جیسے ذوا معدی کرب، ذواتا بعلبک۔

اسم مقصود (یعنی وہ اسم معرب جس کے آخر میں یا ماقبل مکسور ہو جیسے القاضی) میں اگر یا ماقبل حذف ہو تو حشیہ کی حالت میں پھر لوٹ آئے گی جیسے رام رامیان، داغ داعیان۔

اسم مقصود (یعنی وہ اسم معرب جس کے آخر میں الف ہو اور اس کے بعد ہمزہ نہ ہو جیسے عصا۔ رجم) میں اگر الف تیسری جگہ ہو اور کسی سے بدل کر آ یا ہو تو حشیہ بنانے کی حالت میں تو اصل کی طرف لوٹ جائے گا جیسے عصاء سے عصوان، فنی سے فنیان۔

اور اگر چوتھی جگہ یا اس سے زائد ہو تو یا ماقبل مضموم اور اس سے بدل کر آ یا ہو تو حشیہ بنانے کی حالت میں تو اصل کی طرف لوٹ جائے گا جیسے ذکریان، قہقرآن، خوزلان، شاذین، قیاس کا تقاضا تھا کہ قہقہریان، خوزلیان ہوتے۔

اسم ممدود (یعنی وہ اسم معرب جس کے آخر میں ہمزہ ہو اور اس سے

ذو وعلیک۔

اور اگر صفت ہو تو شرط یہ ہے کہ ذکر ہو ذوی العقول میں سے ہو اور افضل فلاء یا فعلان فعلی کے وزن پر نہ ہو اور ایسا اسم بھی نہ ہو جس میں مذکور و مؤنث دونوں برابر ہوں جیسے جو صبح و صبور اور ایسا بھی نہ ہو کہ تاء تانیث سے التماس کا خوف ہو جیسے علائمة کچھ ایسے اسماء ہیں کہ ان میں شرطیں نہیں پائی جاتیں مگر جمع مذکر سالم کے وزن پر ان کی جمع آتی ہے۔ مثلاً ارضون، عالمون، علیون، اهلون، بنون، سنون اور اسی طرح ہر وہ کلمہ ثلاثی جس کا لام کلمہ حذف کر دیا گیا ہو اور اس کے عوض میں تاء لایا گیا ہو اس کی جمع بھی واؤنون سے آتی ہے جیسے عضون، سبون، متون۔

'کسرات'، 'خجرات' سے 'خجرات'، 'خجرات'، 'خجرات' اور اگر کلمہ اجوف ہو تو عین کلمہ جمع میں ہمیشہ ساکن رہے گا خواہ فاعلی حرکت کیسی ہی ہو جیسے خجرات سے خجرات، بیعت سے بیعت اور اگر ناقص ہو تو اس کا حکم وہی ہے جو صحیح کا ہے جیسے رعیۃ سے رعیات اور زعیات اور زعیوات سے زعیوات، زعیوات۔ لیکن اگر فاعل کسور اور لام کلمہ واوی ہو تو صرف فتح دینا اور ساکن رکھنا جائز ہے اور ہم شکل فاعل بنا کر جائز نہیں جرواٹ شاذ ہے۔ اسی طرح اگر فاعل مضموم ہو اور لام یائی ہو تو بھی دونوں صورتیں ہوں گی اتباع جائز نہیں۔ اور اگر کلمہ مدغم ہو تو جمع بنانے وقت کلمہ ادغام نہیں ہوگا۔ جیسے ضمة سے ضمات، عزة سے عزات

جمع مؤنث سالم

جمع مؤنث سالم وہ ہے کہ جس کے آخر میں الف و تاء کی زیادتی ہو جیسے ثمرات و شجرات۔ اگر مفرد کے آخر میں پہلے ہی سے تاء ہو تو جمع بناتے ہوئے اس کو حذف کر دیتے ہیں جیسے طالبات سے طالبات مسلمة سے مسلمات۔

اس وزن پر مندرجہ ذیل اسماء کی جمع آتی ہے۔

- (۱) ہر وہ اسم جس کے آخر میں تاء ہو جیسے ثمرات سے ثمرات، شجرات سے شجرات، امرات، اشاة، قللة، امة، ملئة، شفة اس سے مستثنیٰ ہیں۔
- (۲) ہر وہ اسم جو مؤنث کا حکم ہو جیسے زینب سے زینبات مریم سے مریمات
- (۳) ہر وہ اسم جو مصدر ہو اور تین حرف سے زائد ہو جیسے تعریفات اختیارات امتیازات۔
- (۴) ہر وہ اسم جس کے آخر میں الف تانیث مقصورہ یا مددودہ ہو۔ جیسے صحراء سے صحراء، صحی سے صحیات۔

اور ان اسماء مقصورہ یا مددودہ میں الف کی تبدیلی یا باقیا کے متعلق وہی صورتیں اختیار کی جائیں گی جن کا ذکر شئی میں ہو چکا ہے۔ اسماء مذکورہ بالا بکے علاوہ میں اس وزن پر جمع کا آنا سہمی ہے جیسے مساوات، ارضات، بجات، حمامات، سرادات، شمالات، امہات، سراویلات وغیرہ۔

الفاظ انجیہ میں سے بعض کی جمع اسی وزن پر آتی ہے جیسے تلفرافات اور بعض کی جمع کسر آتی ہے جیسے اساکل، قناصل، بطاركة، بحرولة

تنبیہ: اگر کلمہ ثلاثی ہو اور اس کا عین کلمہ صحیح ہو اور فعل اور فعلتہ کے وزن پر ہو تو جمع بناتے ہوئے عین کلمہ کو صحیح دینا ضروری ہے۔ جیسے سمرة، تمرات، رخیمة و رخیمات۔

اور اگر فعل یا فعلل کے وزن پر ہو تو صحیح دینا ساکن رکھنا اور فاعل کی حرکت جیسی حرکت دینا بھی جائز ہے جیسے کسرات سے کسرات، کسرات

جمع مکسر

اوپر بتلایا جا چکا ہے کہ جمع مکسر وہ ہے جس میں واحد کا وزن اپنی حالت پر باقی نہ رہے کچھ نہ کچھ تغیر ہو جائے۔ اس تغیر کی تین صورتیں ہیں کبھی تو زیادتی سے جیسے زنجیل سے زجال۔ کبھی حذف سے جیسے رسول سے رسل۔ کتب سے کتب اور کبھی محض حرکت کی تبدیلی سے جیسے اشد سے اشد، بنت سے بنت۔

جمع مکسر کی دو قسمیں ہیں جمع قلت، جمع کثرت۔

جمع قسلة وہ ہے جس سے تین سے دس تک کی تعداد معلوم ہوتی ہے اس کے چار وزن ہیں

افعال جیسے طفل سے اطفال، اطفال جیسے نو سے اطفال، اطفال جیسے رعیۃ و رعیۃ سے اریۃ، اریۃ سے اریۃ، اریۃ سے اریۃ جیسے فنی سے فنیۃ

افعال کی دو بارہ جمع افاعیل کے وزن پر ہے جیسے انعام کی جمع انامیم اور افعال کی جمع افاعل کے وزن پر جیسے اکل کی جمع اکالب آتی ہے اس کو جمع متنبی الجوع کہتے ہیں اور اس سے مراد تمام وہ اوزان ہیں جن میں الف جمع کے بعد دو حرف متحرک یا تین حرف ہوں اور درمیان میں یا ہ ساکن ہو جیسے مساجد، منابر، انامیم، قنادیل

(تنبیہ) جمع قلت پر الف لام استفراف داخل ہو اور یا ایسی چیز کی طرف اضافت ہو جس کی دلالت کثرت پر ہو تو کثرت کا فائدہ دیتی ہے جیسے ایہا الشیوخ لا تحوونوا کما یفنیۃ، احفظوا انفسکم۔

جمع کثرت وہ ہے جو تین سے زیادہ الی غیر التبیہ کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے اوزان بہت ہیں صرف چند قیاسی ہیں جن کا ذکر آگے آئے گا۔ جمع سالم کی دونوں قسمیں بعض کے نزدیک جمع قسلة کا فائدہ دیتی ہیں اور بعض کے نزدیک مطلق جمع کا بغیر قلت و کثرت کا لحاظ کئے ہوئے جس کا مال یہ ہے کہ قلت و کثرت دونوں کا فائدہ دیتی ہیں۔

جمع کثرت کے قیاسی اوزان

- (۱) لُفَعْلُ فُفَعْلَةٍ کی جمع جیسے غُلْبَةُ نَجْمٍ غُلْبٌ۔ صورت کی جمع صورتِ ضُرَّةً کی جمع ضُرُورٌ۔
- (۲) فُفَعْلُ فُفَعْلَةٍ کی جمع جیسے قَطْعَةٌ کی جمع قَطِيعٌ۔ لیکن لُفَعْلَةٍ کی جمع بھی فُفَعْلٌ بھی آتی ہے جیسے حَلِيَّةٌ کی جمع حَلِيٌّ۔ لَحِيَّةٌ کی جمع لَحِيٌّ۔
- (۳) فُفَعْلٌ ہر بائی مجرد کی جمع جیسے بَلْبَلٌ کی جمع بَلَابِلٌ حدس کی جمع حداسٌ اور خماسی مجرد و مزید کی جمع بھی جیسے سُرْجَلٌ کی جمع سَفَارِجٌ اور خندریس کی جمع خندارسٌ۔
- (۴) فُفَاعِلٌ ہر ثلاثی کی جمع جس کے فاکلہ کے بعد واؤ یا الف کی زیادتی ہو جیسے جوہر کی جمع جوہر۔ خاتم کی جمع خواتم۔
- (۵) فُفَاعِلٌ مؤنث کی جمع جس کا تیسرا حرف مدہ ہو جیسے حَيْفَةٌ کی جمع حَمَائِفٌ رسالہ کی جمع رسائل۔
- (۶) اَفْصَاعِلُ اَفْعَالٍ (ہتھیاف الہزہ) کی جمع اَفْصَاعِلُ۔ اِصْبَعٌ کی جمع لَحِيصَةٌ اَصْبَاعٌ اَنْصَلَةٌ کی جمع اَنْصَالٌ اَجْدَلٌ کی جمع اَجْدَالٌ
- (۷) اَفْصَاعِلُ اَفْعَالٍ اور اَفْعَالَةٌ کی جمع جیسے اسلوب کی جمع سالیب اجوزۃ کی جمع اراجیز۔
- (۸) فُفَعَالِلٌ ہر اس رباعی کی جمع جس کے حرف آخر سے پہلے مدہ ہو جیسے قَرَطَاسٌ کی جمع قَرَطِيسٌ۔ مَصْفُورٌ کی جمع مَصْفَائِرٌ۔
- (۹) مَفْصَاعِلٌ مَفْعَلٌ اور مِفْعَالَةٌ کی جمع جیسے مَبْضَعٌ کی جمع مَبْضَاعٌ مَكْنَسَةٌ کی جمع مَكْنَسٌ
- (۱۰) مَفْصَاعِلٌ مَفْعَالِلٌ اور مَفْعَالِلٌ مَفْعُولٌ کی جمع مفتاح کی جمع مَفْتَائِحٌ۔ مَسْكِينٌ کی جمع مَسَاكِينٌ مَقْدُورٌ کی جمع مَقَادِيرٌ۔

اسم جمع و شبہ جمع

- اسم جمع وہ ہے جس سے جمع کے معنی ظاہر ہوں اور اس کے لئے اسی مادہ سے مفرد نہ ہو جیسے خیل 'قوم' ربط 'بیش'۔
- شبہ جمع وہ ہے جو جمع کے معنی کو ظاہر کرے اور واحد جمع میں تاہ کی وجہ سے امتیاز ہو مثلاً: ورق کاس کا مفرد ورقتہ 'ہے' شکر کاس کا واحد شکرۃ ہے اور اسی قبیل سے ہے وہ کہ واحد اور جمع میں یاہ سبکی کی وجہ سے فرق ہو جیسے الروی۔ رویوں میں کا ایک۔ الحجی۔ حجوسیوں میں سے ایک۔ لیکن اس کا لحاظ رہے کہ پہلا مفرد ذوی العقول کے لئے اور دوسرا ذوی العقول کے لئے۔
- ہر اسم جمع اور شبہ جمع کی مفردات کے طرز پر آتی ہے جیسے قوم کی جمع اقوام رفقہ کی جمع رفق، شہم کی جمع انجم اور روم کی جمع اردام۔

صفت

صفت ہر وہ اسم ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ کوئی وصف ہو اس کی پانچ قسمیں ہیں۔ (۱) اسم فاعل (۲) اسم مفعول (۳) صفت مشبہ (۴) اسم تفضیل (۵) اوزان مبالغہ۔

صفت کی تانیث

صفت صفت کو اگر مؤنث بنانا ہو تو آخر میں تا لگا دو جیسے صادق صادقۃ عالم عالمۃ لیکن وہ صفت جو فعلان یا افضل کے وزن پر یا اسم تفضیل ہو اس کے احکام جدا گانہ ہیں۔

- (۱) جو صفت کا فعلان کے وزن پر ہو اس کے لئے مؤنث فعلی کے وزن پر آتی ہے جیسے عطشان سے عطشی سکران سے سکری ظمان سے ظمائی لیکن بعض کلمات ایسے ہیں کہ ان کی تانیث تاہ کے ساتھ آتی ہے اور وہ یہ ہیں البان، حبلان، حمصان، سخنان، صوجان، ضوجان، قشوان، مضان، نلعمان، نصران اور بعض کلمات کی تانیث فعی کے وزن پر بھی اور تاہ کے ساتھ بھی آتی ہے جیسے عطشان سے عطشی اور عطشانۃ غضبان سے غضبی اور غضبانۃ
 - (۲) صفت کا صیغہ جو افضل کے وزن پر ہو اس کی تانیث فطاء کے وزن پر ہو جیسے امین سے بیضاء اسر سے سراء۔
 - (۳) اسم تفضیل کے لئے مؤنث کا صیغہ فعلی ہے جیسے اکرم سے کحومی۔ اصغر سے صغریٰ لیکن اگر کلمہ ناقص واوی ہو تو واؤ کو یاہ سے بدل دیتے ہیں۔ جیسے احلی سے خلیاء، ادنیٰ سے دنیا۔
- کچھ صفات کے سینے ایسے ہیں جن میں تذکیر و تانیث برابر ہے اور وہ یہ ہیں

- (۱) فَعَالَةٌ جیسے زَجَلٌ، فُهَامَةٌ، اِمْرَاَةٌ فُهَامَةٌ
- (۲) مِفْعَالٌ جیسے زَجَلٌ مِفْعَالٌ، اِمْرَاَةٌ مِفْعَالٌ اور مِقَالَةٌ شاذ ہے۔
- (۳) مِفْعِيلٌ جیسے رَجُلٌ مِعْطِيرٌ، اِمْرَاَةٌ مِعْطِيرٌ اور مَسْكِينَةٌ شاذ ہے۔
- (۴) مِفْعِيلٌ جیسے زَجَلٌ مِفْعَشْمٌ، اِمْرَاَةٌ مِفْعَشْمٌ
- (۵) فُعْلَةٌ اور فُعْلَةٌ جیسے رَجُلٌ ضَحْكَةٌ، اِمْرَاَةٌ ضَحْكَةٌ اور اگر میں کو فتح دے دیا جائے تو فاعلیت کے معنی ہوں گے جیسے ضحکۃ = بہت ہنسنے والا۔ حمزۃ = بہت عیب لگانے والا۔ اِنْزَاةٌ = بہت ٹھٹھا کرنے والا۔
- (۶) فَعَالٌ جو فاعل کے معنی میں اور فَعِيلٌ جو مفعول کے معنی میں ہو جیسے رَجُلٌ صَبُورٌ، غُلَامٌ قَبِيلٌ، اِمْرَاَةٌ قَبِيلٌ لیکن یہ اس وقت ہے

اس کا لام کلمہ صحیح ہو جیسے زالو کی جمع زوار۔ صالحہ کی جمع صواہم اور کتاب کی جمع کتبہ، ظالم کی جمع ظلمت۔

فعلتہ کا وزن عموماً اس فاعل کی جمع کے لئے ہے جو اجوف سے ہو اور کسی پیشے پر دلالت کرتا ہو جیسے ساقۃ، باعۃ، حاکنۃ، صاغۃ کہ اصل میں سوقۃ، بیعۃ، حیکۃ، صوغۃ تھے۔

(۲) فُعل بھی فاعل کی جمع جیسے سَجَدُ مَسَاجِدِ کی جمع، نالِم کی جمع جُوُعِ جَانِعِ کی جمع۔

(۳) فَوَاعِلِ فَاعِلِہ کی جمع جیسے صواحب صاحبۃ کی جمع عواذل عاڈالۃ کی جمع اور فاعل کے وزن پر اس فاعل کی جمع بھی آتی ہے۔ جو طبقہ اناث کے صفات کے لئے ہو جیسے عواقر، عفاقر کی جمع حواہلِ حائل کی جمع طواہقِ طالق کی جمع۔

(۴) فعلاءِ فعیل کی جمع جو معنی میں فاعل کے ہو جیسے کرماء کرمیم کی جمع۔ عَلَمَاءُ عَلِیمِ کی جمع۔

(۵) افعلا فعیل کی جمع جو مضاعف یا معتل اللام ہو جیسے اغنیاء غنی کی جمع اقویا قوی کی جمع۔

مذکر اسم تفضیل کی جمع جمع سالم افعولن کے وزن پر آتی ہے جیسے اعظمون اکرمون اور جمع مکسر افعال کے وزن پر جیسے اصاغرو اکابرو مؤنث اسم تفضیل کی جمع سالم فعلیات کے وزن پر جیسے عظمیات کرمیات اور جمع مکسر فعل کے وزن پر جیسے صغور، کجور، مینہ تہی الجورع کی جمع مکسر نہیں آتی لیکن جمع سالم آتی ہے جیسے ضوارب کی جمع ضواربات، افاضل کی جمع افاضلون

نسبۃ

کسی چیز کی طرف نسبت ظاہر کرنے کے لئے اسم کے آخر میں یا م شدہ لاحق کرنے کا نام نسبت ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ما قبل یا ہ کو مناسبت کی وجہ سے کسرہ دیا جائے جیسے رجل مضرّی۔

اگر اسم ثلاثی کسور العین ہو تو نسبت کرتے وقت عین کو فتح دیا جائے گا۔ مثلاً فخذ میں فخذی اور ملک میں ملکھی کہا جائے گا اور اگر رباعی ہو تو فتح یہ ہے کہ عین پر کسرہ باقی رہے گا۔ جیسے مشرق میں مشرقی مغرب میں مغربی بیثرب میں بیثربی۔

اگر کسی ایسے اسم کی طرف نسبت ہو جس کے آخر میں تاء ہو تو اس کا حذف کرنا ضروری ہے جیسے قاہرہ سے قاہری۔

اگر اسم کے آخر میں تیسرا حرف الف مقصورہ ہو تو واؤ سے بدل دیا جائے گا جیسے عسائے عسویّ، فسی سے فسویّ۔

اور اگر چوتھا حرف ہو اور اصلی ہو تو واؤ سے تبدیلی زیادہ ہے جیسا کہ مروضی سے مروضی اور حذف کرنا بھی جائز ہے جیسے مرہمی اور اگر اصلی

جبکہ موصوف معروف ہو ورنہ تاء کے ساتھ فرق کرنا ضروری ہے ہاں عدوۃ شاذ ہے۔

کبھی فعلیل جو مفعول کے معنی میں ہو باوجود معروف ہونے کے مؤنث کو تاء کے ساتھ لاتے ہیں خاتمة سعیدۃ، عاقبة حمیدۃ اور کبھی فعلیل فاعل کے معنی میں مؤنث بغیر تاء کے جیسے امراسة عقیم، یحیی العظام وہی زمیم۔

جو صفات کہ طبقہ اناث ہی کے ساتھ مخصوص ہیں جب معنی حدوث کا لحاظ نہ ہو تو عموماً آخر میں تاء نہیں آتی جیسے طالق، مرضح، حال اور حدوث کے معنی کا لحاظ ہو تو تاء آتی ہے جیسے ارضعت فیہی مروضۃ۔

صفت کی جمع

اگر صفت کا سینہ ذوی العقول کے لئے ہو خواہ مذکر خواہ مؤنث اس کی جمع جمع سالم لاتے ہیں جیسے رجال صادقون، نساء صادقات جو صفت الفعل فعلاء یا فعلان فعلی کے وزن پر یا اسم فاعل ناقص کا یا فعلی بمعنی مفعول ہوان کے احکام جدا گانہ ہیں۔

(۱) جو سینہ صفت کا افضل فعلاء کے وزن پر ہو اس کی جمع فعل کے وزن پر آتی ہے جیسے امر کی حمر۔ ازرق کی زرقی، افسرج کی غسرج، اعمنی کی عمسی لیکن اگر کلمہ اجوف یا بی ہو تو فاء کو کسرہ دے دیتے ہیں۔ غید، بیض، ہیف، اغید، ایض، اھیف کی جمع۔

(۲) جب صفت فعلان فعلی کے وزن پر ہو تو اس کی جمع فعالی یا فعال کے وزن پر آتی ہے جیسے مسکاری و حیارئ مسکران و حیران کی جمع اور جصاص و غضاب جو عان اور غضبان کی جمع۔

(۳) اسم فاعل ناقص کی جمع فعلتہ کے وزن پر آتی ہے جیسے دعلۃ، رماۃ، غزاة کہ اصل ان کی ذُعُوۃ، زُمَیۃ غزیۃ ہے۔

(۴) ایسے مادہ سے جو ہلاکت، درد یا تشنّت کے معنی پر دلالت کرے اس سے فعلیل بمعنی مفعول کی جمع فعلی کے وزن پر آتی ہے جیسے جرجع کی جمع جرجعی، صریح کی جمع صریحی، شیشیت کی جمع شیشی اور اسی پر حمل کیا گیا ہے اس کو کبھی جو معنی میں اس سے مشابہت رکھتا ہو اور فعلیل بمعنی فاعل ہو جیسے مریض کی جمع مرضی..... یا فعل کے وزن پر ہو جیسے زمن کی جمع زمسی یا فاعل کے وزن پر ہو جیسے ہالک کی جمع ہلکی

صنات کی جمع کے بغیر قیاسی اوزان چھ ہیں۔ فَعَالٌ، فَعْلَةٌ، فَعْلٌ، فَوَاعِلٌ، فَعْلَاءٌ اور فَعْلَاءٌ۔

(۱) فَعَالٌ اور فَعْلَةٌ ہر اس اسم کی جمع ہے جو فاعل کے وزن پر ہو اور

قلنسوة سے قلبیسی اور سرقوقہ سے ترقی کہا جائے گا اور نہیں تو واؤ باقی رہے گا جیسے عدو سے عدوی دلو سے دلوئی۔

اگر اسم کے آخر میں یا مشد ہو اور اس سے پہلے دو حرف ہوں تو یاہ کا حذف کرنا ضروری ہے جیسے شافعی کی طرف نسبت کرتے ہوئے شافعی ہی کہا جائے گا اور اسکندریہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسکندری۔

اور اگر یاہ سے پہلے ایک ہی حرف ہو جیسے حسی تو دوسرے حرف کو فتح دینا اور تیسرے کو واؤ سے بدل دینا واجب ہے جیسے کہ حسی سے خبیوئی۔

اور اگر دوسری یاہ واؤ سے بدل کر آئی ہو تو نسبت کرتے ہوئے پھر واؤ ہو جائے گی جیسے طعی سے طکوئی اگر کسی کلمہ سے آخر حرف کا حرف حذف ہو گیا ہو اور محذوف منہ میں دو حرف باقی ہوں تو نسبت کرتے ہوئے اس محذوف حرف کو واپس لایا جائے گا جیسے اب سے ابوی انخ سے انخی۔

لفظ اخت اور بخت کی طرف نسبت تاہ کے ساتھ ہوتے ہوئے کہا جاتا ہے انخی و بخی اور بعض حذف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں انخی بنوی اور لفظ ابنتہ کی نسبت میں انبی اور بنوی کہا جاتا ہے۔ یہ اور دم جیسے الفاظ میں محذوف کو لوٹا دینا انسخ ہے کہا جائے گا کیونکہ ذہنی اور بغیر واؤ کے لائے ہوئے بھی نسبت کرنا جائز ہے جیسے یدی، دمی۔

اور اگر کسی کلمہ میں محذوف کے عوض میں ہمزہ وصل لایا گیا ہو جیسا کہ ابن اور اسم میں تو عوض کو حذف کر دینا اور محذوف کو لوٹانا جائز ہے۔ اسم اور ابن کی نسبت میں سموئی اور بسنوی کہنا جائز ہے اور انہی و اسمی بھی کہنا جائز ہے۔

اور اگر محذوف کے بدلے میں تاہ تانیث ہو تو تاہ کو حذف کر دیا جائے گا اور محذوف کو دو بارہ لایا جائے گا جیسے سنہ سے سنوی لکنہ سے لئوی اور زینہ سے زوئی اور صلہ سے وصلی۔

تثنیہ اور جمع کی طرف نسبت کرنا ہو تو مفرد کی طرف لوٹا دیا جائے گا جیسے عراقین سے عراق، مسلمین سے مسلمی۔

یہی حکم ہے کہ ان کا جو تثنیہ اور جمع کے ساتھ لاحق ہیں جیسے النسین سے انسی اور مثنوی، عشرين سے عشوی، اربعین سے اربعی۔

ایسے جمع جن کے لئے مفرد نہیں جیسے ابابیل و صنادید اور یا مفرد تو ہیں لیکن اسی لفظ سے نہیں جیسے خاطر مناجذہ، نساء نسبت کرتے ہوئے اپنے حال پر باقی رہیں گے جیسے خاطر مناجذہ، نسائی۔

بعض علماء صرف کے نزدیک جمع کسر نسبت کی حالت میں اپنی وضع پر رہے گا جیسے ملائکہ سے صلا نسکی، ملوک سے ملوکی اور جوجع مکر علم ہو گیا ہو وہ بھی نسبت کی حالت میں مفرد کی طرف لوٹا یا نہیں جائے

نہ ہو بلکہ زائد ہو تو خواہ تانیث کے لئے ہو خواہ الحاق کے لئے تو وہاں پر حذف مختار ہے جبلی اور ذہوی کہا جائے گا اور واؤ سے بدل دیں تو یہ بھی جائز ہے اس صورت میں جبلی ذہوی کہا جائے گا لیکن الف تانیث کو جب واؤ سے بدلتے ہیں تو اکثر اس سے پہلے ایک الف بڑھا دیتے ہیں جیسے طوباوی، ذینباوی۔

اور اگر الف مقصورہ ایسے اسم میں واقع ہو جس کا دوسرا حرف متحرک ہو تو حذف کر دیا جاتا ہے جیسے مصطفیٰ اور بعض واؤ سے بدلنا بھی جائز کہتے ہیں اس صورت میں کہا جائے گا مصطفویٰ اگر اسم کے آخر میں الف ممدودہ تانیث کے لئے ہو تو واؤ سے بدل دیا جائے گا جیسے صفراء سے صفراوی، بیضاء سے بیضاوی اور اگر اصلی ہو تو اس کا باقی رکھنا ضروری ہے جیسے قراء سے قرآنی، ابتداء سے ابتداء، انتہاء سے انتہائی۔

اور اگر اصلی نہ ہو تو باقی رکھنا اور واؤ سے بدلنا دونوں جائز ہے جیسے رداء سے رداوی یا رداوی، ساء سے سائی یا ساوی۔

اور اگر اسم مقوص ہو اور یاہ تیسری جگہ میں ہو تو اس کو واؤ سے بدل دیتے ہیں اور اس کے ماقبل کو فتح دیتے ہیں جیسے غمی سے عموی۔ اور اگر چوتھی جگہ یا اس سے زائد ہو تو حذف کرنا جائز ہے جیسے قاضی سے قاضی، ماضی سے ماضی اور واؤ سے بدلنا بھی جائز ہے اور اس صورت میں ماقبل کو فتح دیا جائے گا کہا جائے گا قاضوی، ماضوی اور اگر پانچویں جگہ یا اس سے زائد ہو تو حذف کرنا ضروری ہے جیسے مستعلی سے معتدی۔

اور اگر کلمہ فعیل کے وزن پر ہو اور آخر میں حرف صحیح ہو تو وزن اپنی حالت پر باقی رہے گا۔ جیسے حنیف سے حنیفی، غلیل سے غلیلی اور ناقص ہو تو ایک یاہ کو حذف کر دیا جائے گا اور دوسرے کو واؤ سے بدل دیا جائے گا اور ماقبل کو فتح دیا جائے گا جیسے غنی سے غنوی، غلی سے غلوی۔

اور اگر فعیلہ کے وزن پر ہو مضاعف اور معتل نہ ہونے کی صورت میں یاہ کو حذف کر دیا جائے گا اور ماقبل مفتوح ہوگا جیسے مدینہ سے مدنی، فریضہ سے فرضی۔ بعض الفاظ میں یاہ کا باقی رہنا شاذ ہے جیسے طیبی، سلقی۔

اور اگر مضاعف یا معتل میں ہو تو کچھ حذف نہیں ہوگا طویلہ کی نسبت میں کہا جائے گا طویلی اور عزیزہ میں عزیزی۔

جو حکم فعیل و فعیلہ کا بیان کیا گیا ہے یہی فعیل و فعیلہ میں بھی جاری ہوگا جیسے عقیل سے عقیلی، قصی سے قصبوی، قلبیہ سے قلبی، انیمہ سے انیمی۔

اگر اسم کے آخر میں واؤ چوتھی جگہ یا اس سے زائد پر ہو اور اس کے ماقبل ضمہ ہو تو نسبت کرتے ہوئے واؤ کو حذف کر دیا جائے گا۔

انف کبیر سے	أناقی	حرمین	حرمی	رباب	رَبِی
أُمّیہ	أُموی	حضر موت	حَضْرَبِی	سہل	سہلی
بادیہ	بَدوی	خزینہ	خَزِیْنِی	سلیقہ	سَلِیقِی
بحرین	بَحْرانی	ذہر	ذَهْرِی	سلیمۃ الازد	سَلِیْمِی
بہراء	بَهْرانی	ذیر	ذِیْرانی	سَلِیْم	سَلِیْمِی
تہامہ	تہامی یا تہام	دارنا	دَارانی	شام	شام
تیم اللات	تِیْمَلِی	رب	رَبّانی	شعر کبیر	شعرانی
ثقیف	ثَقِیفِی	رقبہ عظیمہ	رَقَبِی	صدر کبیر	صدرانی
جمہ عظیمہ	جِمْھانی	رامہرمز	رَامِی	صنعاہ	صنعانی
جذیمہ	جِذِیْمِی	ردینہ	رَدِیْنِی	طبیعہ	طبیعی
جلولاء	جَلُولِی	روح	رُوحانی	مرو والشاہجہانی	مَرُورِی
بنی الجلی	جَلِیّی	فقیم کناہ	فَقِیْمِی	امرؤ القیس	مَرُوقِیْمِی
طبی سے	طانی	فراہید	فَرَاهِیْدِی	ہجر	ہاجرِی
عمیرہ کلب	عُمَیْرِی	قوم	قَوْمِی	ہذیل	ہَذِلیّی
بنی عبیدہ	عَبِیدِی	قریش	قُرَیْشِی	انباط	نَبَاطِیّی
عبدشمس	عَبْشِیْمِی	کت	کُتِیّی	ناط	نَاطِی
عبدالدار	عَبْدَرِی	لحیہ عظیمہ	لَحِیّانی	ناصرہ	نَضْرانی
عبدقیس	عَبْقِیْسِی	ملیح خزاعہ	مَلِیحِی	یمن	یَمَانِی
عبداللہ	عَبْدِی	زوحاء سے	زُوحانی		
صرواء	خُرُورِی	رے	رَازِی		

تصغیر

قلت یا حشرات ظاہر کرنے کے لئے اسم میں کچھ تغیر کرنے کا نام تصغیر ہے۔ مثلاً مجرد سے فَعِیل کے وزن پر آتا ہے جیسے کلب سے کلیب، عبد سے عَبِید، رُجُل سے رَجِیل، مَلَائِکَہ پر بائی اور خاص سے اگر چہ حرف مد نہ ہو تو فَعِیل کے وزن پر جیسے جَعْفَر سے جَعْفَرِی۔ مفرجل سے مَفْرِج اور اگر مدہ ہو تو فَعِیل کے وزن پر جیسے قمرطاس سے قَمْرِبَاطَس مضراب سے مَضْرِبُوت اگر اسم کے آخر میں علامت تانیث کا یا الف نون زائدتان ہو تو علامت تانیث یا الف نون سے متصل ہو تو حرف ہو گا وہ اسی حالت پر رہے گا جس پر تصغیر سے پہلے تھا۔ جیسے نمرہ کی تصغیر فِجیر، بشری کی ہشیری، مسرا کی سمیراء، سکران، سکیران، غضبان کی غضبان اگر کلمہ مؤنث معنوی کا ہو تو تصغیر بنانے میں تاہ۔

اگر کلمہ مؤنث معنوی کا ہو تو تصغیر بنانے میں تاہ مقدرہ کا ظاہر ہونا ضروری ہے جیسے ارض سے اریضہ، شمس سے شمیستہ لیکن شرط یہ

گا۔ جیسے انبار سے انباری، انصار سے انصاری، ابواز سے ابوازی۔ اور مرکب بنائی میں نسبت کرتے ہوئے آخر کا جزء حذف کر دیا جائے گا اور اول جزء کی طرف نسبت کریں گے جیسے بعلبی و معدی جبکہ بعلبک اور معدی کرب کی طرف نسبت کرنا ہو اور کبھی مجموعہ کی طرف نسبت کرتے ہیں جیسے بطنکی و معدی کربی۔ اور مرکب اضافی کی صورت میں کسی جزء اول کی طرف نسبت کرتے ہیں اور کسی میں جزء ثانی میں جیسے امراء القیس سے امرئی دیر القتر سے دیرانی، عبدالاشبل سے اشبلی، ابوبکر سے بکری عبدمناف سے منافی۔ کبھی مرکبات اضافیہ میں پورے کی طرف نسبت کرتے ہیں جیسے عین اہل سے عین اہلی وادی آش سے وادی آشی، عین حور سے عین حوری۔ اور مرکب اسنادی میں صدر یعنی جزء اول کی طرف نسبت ہوتی ہے اور بجز یعنی جزء ثانی کو حذف کر دیا جاتا ہے جیسے تابلشرا سے تابلشی، ذرحیٹا سے ذری۔

ہے کہ التباس سے امن ہو ورنہ جہاں التباس کا خوف ہوگا ظاہر نہیں کریں گے مثلاً خمس جبکہ معدوم و مؤث ہو تو تصغیر میں خمس میں کہیں گے خمیس نہیں تاکہ معدوم نہ کر کے لفظ خمسہ کی تصغیر سے التباس نہ ہو۔

اگر کلمہ میں حرف علت ہو اور تعلیل ہو چکی ہو تو تصغیر بنانے میں اصل کی طرف لوٹ جائے گا۔ مثلاً باب کی تصغیر بویب اور ناب کی تصغیر بیب ہوگی۔ اس لئے کہ باب کا الف واؤ اور تاب کا الف یاہ تھا اس وجہ سے کہ ان کی جمع ابواب اور ایاب آتی ہے اور قاعدہ ہے کہ جمع تکبیر اسامہ کو اصل کی جانب لوٹا دیتی ہے۔

اور اگر کلمہ ایسا ہو کہ یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا الف واؤ سے بدلا ہوا ہے یا یاہ سے تو وہاں پر ما قبل کے ضمہ کا لحاظ کرتے ہوئے تصغیر میں واؤ لایا جائے گا۔ جیسے عجاج سے عویج کہا جائے گا۔

لفظ عید کی تصغیر عیید شاذ ہے۔ قیاس کے لحاظ سے عوید ہونا چاہئے تھا اور اگر واؤ یاہ بدلے ہوئے نہ ہوں تو اپنی حالت پر رہیں گے مثلاً سور سے سویر۔ بیت سے بییت۔

اگر اسم کا دوسرا حرف الف زائد ہو تو واؤ سے بدل دیا جائے گا۔ جیسے خالد سے خوید۔ ضارب سے ضویرب۔

اور اگر تیسرا حرف الف یا واؤ ہو تو یاہ سے بدل کر یاہ تصغیر میں مدغم ہو جائے گا جیسے عصا سے عُصْی دلو سے ذُلْی۔ عجزو سے عُجْزِی۔ کتاب سے کُتِیْب۔

اور اگر واؤ متحرک ہو اور لام کلمہ نہ ہو تو یاہ سے بدلنا اور باقی رہنا دونوں جائز ہے جیسے جدول سے جُذْبِل یا جُذْبُول اور سے اُدبویا اُدبور۔

اگر تیسرا حرف یاہ ہو تو یاہ تصغیر میں ادغام کر دیا جائے گا جیسے نُصْبور سے نُصْبِی۔ جمیل سے جُمِیْل۔

اور اگر چوتھا حرف واؤ یا الف ہو تو یاہ سے بدل دیا جائے گا جیسے عصفور سے عَصْفَر اور سلطان سے سُلْطَانِیْن۔

اس تفصیل اگر ناقص ہو تو تصغیر میں تو یاہ تصغیر کا ما بعد فعل توجب کی مانند مفتوح رہے گا جیسے ہوا حیلی من العسل۔

اسماء محدوفۃ الاعجاز کی تصغیر اس طرح پر ہوگی۔ اُنْہِیْ اُنْحِیْ، ذُصْیْ اور اگر ایسا اسم ہو کہ اخیر کا حرف حذف کر کے شروع میں ہمزہ وصل لگایا گیا ہو تو تصغیر بنانے میں ہمزہ وصل حذف کر دیا جائے گا اور حذف حرف واپس آ جائے گا جیسے ابن کہ اس کی تصغیر بُنْی ہوگی۔

اور اگر محذوف کے عوض میں تاہ ہو تو صرف محذوف کو واپس لائیں گے اور عوض کو حذف نہیں کریں گے جیسے زنة عده کی تصغیر زینة وُعیدة ہوگی اور اخت اور بنت کی تصغیر اُخْیة بُنْیة آئے گی۔

ثنی اور جمع سالم کی تصغیر اس طرح پر آئے گی مؤمنان کی مؤمنانہ 'مؤمنون کی مؤمنون' مؤمنات کی مؤمنات۔ اسی طرح جمع قلت کی تصغیر ارغفة کی ارغفة ہوگی۔

اور جمع کثرت کی تصغیر بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مفرد کی تصغیر بنا کر واؤ نون لگا دیا جائے گا جیسے غلام کی جمع غلمان کی تصغیر کی صورت یہ ہوگی کہ غلام کی تصغیر غَلْمِ بنا کر واؤ نون لگا کر غلیمون کہا جائے گا۔ اسی طرح شاعر کی جمع شعراء کی تصغیر شویعون ہوگی اور اگر مذکر لایعقل یا مؤث ہو تو آخر میں اسی طرح الف تاہ لگائیں گے جیسے جاریتہ کی جمع جواری کی تصغیر جویریات درہم کی جمع دراہم کی درہیمات اور مرکب اضافی کی تصغیر اس طرح پر ہوگی کہ پہلے جزء کی تصغیر بنا کر دوسرے جزء کو اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے مثلاً عبد اللہ کی تصغیر عبید اللہ ہوگی اور یہی حالت مرکب بنائی کی ہوگی جیسے معدیکرب کی تصغیر معیدیکرب۔ حضور موت کی تصغیر حضیر موت، لفظ یہ کی تصغیر لفظیوہ، خمسہ عشر کی خمیسہ عشر، بعلبک کی بعلبک۔

اور مرکب اسنادی مثلاً تابا شرا کی تصغیر نہیں آتی۔

تشبیہ

کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کی تصغیر خلاف قیاس آتی ہے۔ ایسحر' بسحر کی۔ ایسیان' انسان کی۔ رویجل' روجل کی۔ اصیلال' اصیل کی۔ عشیشیہ' عشیہ کی۔ اُصْبِیة۔ صْبِیة۔ اغیلمة' غلمہ کی۔ اسی طرح قویس۔ ذریع۔ حویب۔ نعلیل۔ عریس۔ ذوید کی ان سب میں قیاس کے مطابق آخر میں تاہ ہونی چاہئے تھی۔

ہمزہ کی کتابت کے قواعد

ہمزہ اگر ابتداء میں واقع ہو تو ہمیشہ الف کی صورت میں لکھا جائے گا جیسے اسماء' ابناء' اکرام' اسی طرح اگر ابتداء میں ہو مگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا حرف مُنْصَل ہو جیسے ہاجمل' لا فضل لیکن لنلا اور لندن اور یومئذ اور حینئذ میں تخفیف کے لئے کثرت استعمال کی بنا پر اپنی حرکت کے موافق لکھا جائے گا۔

اور اگر ہمزہ وصل ہو اور فاء یا واؤ کے بعد واقع ہو تو حذف کر دیا جائے گا بشرطیکہ اس کے بعد ہمزہ ہو جیسے فانتسی' واذن لی۔

اور اگر ہمزہ درمیان میں واقع ہو اور ساکن ہو تو اپنے ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت کی صورت میں لکھا جائے گا۔ جیسے ساس ہونس ہنس لیکن ہمزہ وصل کے بعد ہوا ورنہ بدلا ہوا ہو تاہ کلام میں اصل کی طرف لوٹا دیا جائے گا اور اسی حرف کی صورت میں لکھا جائے گا

اگر یاہ ساکن ضمہ کے بعد واقع ہو تو واؤ سے بدل جائے گی جیسے ایقن سے فوقین۔ ایسر۔ مؤبیر۔

اسی طرح اگر واؤ ساکن کسرہ کے بعد واقع ہو تو یاہ سے بدل جائے گا جیسے میوزان سے میعان۔

واؤ یا یاہ متحرک ہوں اور ماقبل مفتوح ہو تو الف سے بدل جاتے ہیں جیسے قال، باع، باب، فاب۔

لیکن اس قاعدے کے لئے حسب ذیل شرائط ہیں۔ یہ واؤ یاہ فا کلمہ کی جگہ میں نہ ہوں مدہ زائد سے پہلے الف ثانیہ سے پہلے اور یاہ مشدود اور نون تاکید سے پہلے نہ ہوں۔ ناقص کے معنی کلمہ کی جگہ میں نہ ہوں۔ جس کلمہ میں یہ واقع ہوں وہ فعلان و فعلی کے وزن پر نہ ہو اور ایسے لفظ کے ہم معنی نہ ہو جس میں تغلیل نہیں ہوتی۔

اگر کسی کلمہ میں واؤ یاہ جمع ہو جائیں اور ان میں سے پہلا ساکن ہو تو واؤ کو یاہ کر کے یاہ میں ادغام کر دیتے ہیں جیسے علی میت مری کہ اصل میں طوی، ہیوت، مرموی تھے۔

واؤ یا یاہ اگر الف زائدہ کے بعد طرف میں واقع ہو تو ہمزہ سے بدل جاتے ہیں جیسے کساء سماء بناء طباء۔

جو مدہ زائدہ مفرد میں ہو جب جمع بنایا جائے اور الف فعال کے بعد واقع ہو تو ہمزہ سے بدل جاتا ہے جیسے عجائز۔ قلاذہ سے قلاذہ صحیفۃ سے صحائف۔

باب افعال کے فاء کلمہ میں اگر واؤ یا یاہ واقع ہو تو تاء سے بدل جاتے ہیں جیسے انسی، اتسر۔

اففعال کے فاء کلمہ میں اگر دال یا ذال یا زاء واقع ہو تو تاء کو دال سے بدل لیتے ہیں جیسے اذان، اذکر، اذدان کہ اصل میں ادنان، ادتکر، اذنان، تھے اذکر میں دال کو ذال اور ذال کو دال کرنا دونوں جائز ہے۔ اذکر اور اذکر دونوں کہہ سکتے ہیں۔

اففعال کے فاء کلمہ میں اگر صاد ضاڈ ظا ہ ظاء واقع ہوں تو تاء کو ظاء سے بدل دیتے ہیں جیسے اضطرب، اضطرب، اضطرد، اضطلم، اضطلم جیسے میں ظاء کو ظاء اور ظاء کو ظاء کرنا دونوں جائز ہے۔ اضطلم اور اضطلم دونوں کہہ سکتے ہیں۔

جس سے تبدیلی ہوئی تھی جیسے "یا رجل الذن" اور "ہذا الذی اؤتمنت علیہ" اور ہمزہ متوسط متحرک اپنی حرکت کے موافق حرف کی صورت میں لکھا جائے گا خواہ اس سے پہلے ساکن ہو یا متحرک۔ جیسے لئوم رؤف سال۔

اور اگر مفتوح ہو اور بعد ضمہ و کسرہ کے ہو تو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف کی صورت میں لکھا جائے گا جیسے سؤال، دصال، مؤنث اور اگر ہمزہ الف اور یاہ کے درمیان واقع ہو تو ہمزہ اور یاہ دونوں کی صورت میں لکھنا جائز ہے جیسے بقاء ہی یا بقاء ہی۔

اور اگر ہمزہ الف اور نون میں سے یاہ کے علاوہ کسی اور کے درمیان واقع ہو اور مسکور یا مضموم ہو تو اپنی حرکت کے موافق حرف کی صورت میں اور مفتوح ہو تو ہمزہ کی صورت میں لکھا جائے گا جیسے بسقاؤہ بقاءہ بقاءہ۔

ہمزہ اگر کلمہ کے آخر میں واقع ہو اور اس کے ماقبل ساکن ہو تو ہمزہ کی صورت میں لکھا جائے گا جیسے جؤء شئی، فئی۔

اور اگر ماقبل متحرک ہو تو ماقبل کی حرکت کے موافق حرف کی صورت میں لکھا جائے گا جیسے ہیؤ، لکئ، طلمی۔


اگر ہمزہ طرف میں واقع ہو اور تاء تانیث لاحق ہو اور ہمزہ سے پہلے حرف صحیح ساکن ہو تو ہمزہ کو الف کی صورت میں لکھا جائے گا۔ مثلاً نشاء اور اگر متحرک ہو تو ماقبل کی حرکت کے مشابہ حرف سے لکھا جائے گا جیسے فئۃ لؤلؤۃ۔

اور اگر ماقبل معتل ہو تو یاہ کے بعد یاہ کی صورت میں اور الف اور واؤ کے بعد ہمزہ کی صورت میں لکھا جائے گا جیسے خطیبۃ بربیتۃ قراءۃ، صلاءۃ، صرواءۃ، شواءۃ۔

ابدال کے قواعد

ایک حرف کی جگہ میں دوسرے حرف کے رکھنے کا نام ابدال ہے کثیر الوقوع قواعد حسب ذیل ہیں۔

اگر الف ضمہ کے بعد واقع ہو تو واؤ سے بدل جائے گا۔ جیسے ضارب سے ماشی جمبول کا سینہ ضارب در قاتل سے قویتل۔



اَللَّيْلُ: الف کی دو قسمیں ہیں ساکنہ و متحرکہ۔
ساکنہ کو حرف لین بھی کہتے ہیں جیسے قَالَ 'قَام'
بِأَعْمَاقٍ مَضْرُوبَةٍ اور اس کا نام ہمزہ بھی ہے اور یہ
کئی معانی میں مستعمل ہے۔

(۱) استفہام جیسے أَقْرَأْتُ؟ اَمَّا قُرَأْتُ؟ اَفَلَمْ؟
تَفَرَّقُوا؟ اَفِي الْبَيْتِ اَخْرُوكَ؟

(۲) ندا مقرب: جیسے اَزِيدُ اَقْبِلُ (ای زیداً)
(۳) تسویہ: جیسے لَا اَبْسَالِي اَقْسَمْتُ اَمَّ

فَعَدْتُ مجھے تیرے کھڑے ہونے یا بیٹھنے کی
کوئی پرواہ نہیں یعنی دونوں میرے نزدیک
برابر ہیں۔

آ: حرف ندا ہے بعید کے لئے یا جو بعید کی مانند
ہو جیسے غافل اور سونے والا۔

آب: اُگت کا مینہ (روی میں سے کا نام)

آب (ن) اَبَا و اَبَانَا و اَبَانِيَّة و اَبَانِيَّة اَلِيَّة:
مشاق ہونا

آب (ض ن) اَبِيَّاسَا و اَبَا و اَبَانَا و اَبَانِيَّة
آمادہ و تیار ہونا۔ و آب اَبَّة: کسی کے قصد کی
مانند قصد کرنا۔ کسی کی روش اختیار کرنا

يدُه اِلَى السَّيْفِ: سونٹنے کے لئے ہاتھ
بڑھانا۔

آبَب: چچنا۔ چلانا۔

تَابَبَ بَه: تعجب کرنا اور خوش ہونا۔ اَتَّبَبَ: تیار
ہونا۔ مشاق ہونا۔

آبَاهُ يَابَاهُ: بالسَّهْمِ: تیر سے مارنا۔

آبَتْ (ن ض) و آبَتْ (س) اَبَسَا و اَبَسَاتَا
السَّهْمُ: سخت گرم ہوا۔ صفت آبَتْ و آبَتْ
و آبَتْ

تَابَّتِ: العَجْمُ: بھڑکنا۔

آبَتْ: الغَضَبُ: غصہ کی تیزی۔

آبَتْ و آبَتْ (ض) اَبَسَا: عَلِيَّهِ: بادشاہ کے
سامنے برا بھلا کہنا۔ غیبت کرنا۔

آبَتْ (س) اَبَسَا: اَبَسَتْ: دودھ پینے سے
پیت نکل آنا اور مدہوش سا ہونا۔

آبَتْ: نشاط سے اُگرتے ہوئے چلنے والا۔
اَبَسَجَتْ: حروف چینی کے جمعوں کا سہا کلمہ اور وہ

مجموعے یہ ہیں: اَبَسَجَتْ: حَوْزٌ: حَطْبِيٌّ: كَلَمْنٌ
سَعْفَسٌ: قَرَشَتْ: شَحْفٌ: نَفْطَخٌ: حُرُوفٌ: كِي يه

ترتیب جمل کے حساب کی رعایت سے ہے اور
یہ تاریخ نکالنے کے لئے مستعمل ہے۔ ان

حرفوں کی ترتیب اکائی، دوہائی، سیکڑہ، ہزار پر
ہے۔

آبَد (ض) اَبُوذَا بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔
الشَّاعِرُ: غریب لغت استعمال کرنا۔

آبَد (ن) اَبُوذَا: الْحَيَوَانُ: جنگلی ہونا۔
آبَد (س) اَبَدَا: جنگلی ہونا عَلِيَّهِ: غضبناک

ہونا۔
تَابَدَ: ابدی ہونا، جنگلی ہونا السَّمَكَانُ: مکان کا
ویران ہونا اور جنگلی جانوروں کا مسکن بننا۔

آلَابَدُ: زمانہ حیات و اَبُوذَا: ازلی۔ قدیم
بیش رہنے والا کہا جاتا ہے لَا آتِيَهْ اَبَسَدُ

اَلْاَبْدَانُ و اَلْاَبْدَانُ و اَبَدَا و اَبَدَا
و اَبَدَا الدَّهْرُ الخ" میں اس کے پاس کبھی نہیں

آؤں گا۔
اَبَدَا: ظرف زمان ہے۔ مستقبل میں نفی

و اثبات کی تاکید کے لئے آتا ہے جیسے لَا

اَفْعَلَهُ اَبَدَا: میں اس کو ہرگز نہیں کروں گا

[اَفْعَلَهُ اَبَدَا]: میں اس کو یقیناً کروں گا۔

اَلْاَبْسَدَةُ: وہ بڑا معاملہ یا بڑی مصیبت جس سے
آدمی گھبرائے۔ مصیبت کہ جس کا چرچا ہمیشہ

رہے۔ وحشی عجیب و نادر چیز۔ اَبَدٌ و اَوَّابِدُ.
اَلْاَوَّابِدُ: وہ پرندے جو جاڑے اور گرمی دونوں

موسموں میں ایک ہی جگہ رہیں۔ اَوَّابِدُ الشَّغِيرِ
بے مثال شعر۔ اَوَّابِدُ الكَلَامِ: نادر کلام۔

اَلْاَبَدُ و اَلْاَبَدُ: من اعدا و انسان: ہر سال
جننے والی باندی یا گدھی۔

اَلْاَبْدِيَّةُ: جس کی انتہاء نہ ہو۔

اَلْاَبْدِيَّةُ: دوام جس کے لئے انتہاء نہ ہو۔

اَبُو (ن ض) اَبُو و اَبَا وَا: اَلْمَقْرَبُ فَلَانَا:
بچھو کا ڈسنا۔ غیبت کرنا، خوراک میں

سوئی کھلانا۔ ہلاک کرنا۔ السَّرْزُغُ: اصلاح
کرنا اور گامھا دینا۔

اَبْتَوُ: اَلْبِنُو: کنواں کھودنا۔

اَلْاَبْرَةُ: سوئی ڈنک چغلی اَبْرَةُ الْقُرُونِ:
سینگ کا سرا۔ ج اَبْرُ و اَبَارُ: اَبْرَاتُ:

اَلْمَبْرُ و اَلْمَبْرُ: سوئی دان اَلْمَبْرُ:
چغلی خوری۔ فساد انگیزی۔ ہاریک ریت۔

اَلْاَبَارُ: سوئی بنانے والا۔ پسو۔ درخت خرما
کو گامھا دینے والا۔

اَلْاَبْرِيُّ: سوئی بیچنے والا۔

اَلْمَبْرُ: اَبْرُ: اَبْرُ:

اَلْمَبْرَةُ: چغلی فساد انگیزی۔ ج ما بر۔
اَلْمَبْرُ: اَبْرُ: اَبْرُ:
اَلْمَبْرُ و اَلْمَبْرُ: اَبْرُ: اَبْرُ:
اَلْمَبْرُ و اَلْمَبْرُ: اَبْرُ: اَبْرُ:

خالص سونا۔

الْأَبْرِيْسِيْمُ وَالْأَبْرِيْسِيْمُ: ریشم۔
الْأَبْرِيْسِيَّةُ: بیشپ کا مذہبی حلقہ انتظام۔

الْأَبْرِيْسِيُّ: لونہا، جہاں اَبْرِيْسِيُّ: چھانگل (مغرب)

أَبْرِيْسِيٌّ (ش) أَبْرِيْسِيٌّ وَأَبْرِيْسِيٌّ: اُجھلنا۔
کودنا۔ صفت أَبْرِيْسِيٌّ وَأَبْرِيْسِيٌّ وَأَبْرِيْسِيٌّ بِصَاحِبِهِ
أَبْرِيْسِيٌّ: ظلم کرنا۔

الْأَبْرِيْسِيُّ وَالْأَبْرِيْسِيُّ: بکسوا، جہاں أَبْرِيْسِيُّ۔

أَبْرِيْسِيٌّ (ش) أَبْرِيْسِيٌّ: ملامت کرنا۔ ڈرانا۔
بہ۔ تا بعد اربنانا۔ فلائنا: قید کرنا بدسلوکی
سے پیش آنا۔ حقیر و ذلیل سمجھنا۔أَبْرِيْسِيٌّ: قید کرنا۔ بدسلوکی سے پیش آنا شرم
دلانا۔ الْاَبْرِيْسِيُّ: قحط، خشک سالی۔ سخت جگہ۔
نر کچھوا۔

الْأَبْرِيْسِيُّ: اصل بد۔ سخت جگہ۔

أَبْرِيْسِيٌّ: بد خو عورت۔

أَبْرِيْسِيٌّ (ن) أَبْرِيْسِيٌّ وَأَبْرِيْسِيٌّ: جمع کرنا

تَابَشَ الْقَوْمِ: اکٹھا ہونا۔

الْاَبْرِيْسِيُّ مِنَ النَّاسِ: مخلوط جماعت۔

الْاَبْرِيْسِيُّ: کسی کے صحن اور دروازہ کو کھانے

پینے کی چیزوں سے سجانے والا۔

رَجُلٌ أَبْرِيْسِيٌّ: کمانے والا مرد۔

أَبْرِيْسِيٌّ (س) أَبْرِيْسِيٌّ: خوش ہونا۔ صفت أَبْرِيْسِيٌّ

أَبْرِيْسِيٌّ وَأَبْرِيْسِيٌّ۔

أَبْرِيْسِيٌّ (ن) أَبْرِيْسِيٌّ: اَبْرِيْسِيٌّ: اونٹ کے اگلے

پاؤں کو بازو سے بندھا ہونا۔

تَابَشَ الْبَعِيْرُ: اَبْرِيْسِيٌّ: نامی رسی سے

باندھنا (دیکھئے الْاَبْرِيْسِيُّ) الْبَعِيْرُ: اَبْرِيْسِيٌّ:

نامی رسی سے بندھا ہوا ہونا۔

الْاَبْرِيْسِيُّ: جہاں اَبْرِيْسِيٌّ وَالْمَأْبِيْسِيُّ: جہاں

مَأْبِيْسِيٌّ: زانو کا اندرونی حصہ۔ بندوست۔

الْاَبْرِيْسِيُّ: اونٹ کے پاؤں کو بازو سے

باندھنے کی رسی۔

تَابَشَ الشَّيْءُ: بغل میں لینا۔

إِسْتَأْبَطَ الرَّجُلُ: اوپر سے ننگ اور اندر سے

چوڑا کر رکھا کھودنا۔

الْاَبْرِيْسِيُّ: بغل (مذکر و مؤنث) جہاں اَبْرِيْسِيٌّ اَبْرِيْسِيٌّ
الْحَبِيْلُ: دامن کوہ

الْاَبْرِيْسِيُّ: بغل میں لی ہوئی چیز۔

أَبْرِيْسِيٌّ (س) وَأَبْرِيْسِيٌّ (ن) إِسْبَاقًا وَأَبْرِيْسِيٌّ
وَأَبْرِيْسِيٌّ: بھاگنا۔ صفت أَبْرِيْسِيٌّ جہاں أَبْرِيْسِيٌّ

وَأَبْرِيْسِيٌّ

تَابَشَ: جھینا۔ الشَّيْءُ: انکار کرنا۔ اوپر

سجھنا۔

الْاَبْرِيْسِيُّ: بھاگنا۔ بھاگنا کا چھلنا۔ کتان۔

أَبْرِيْسِيٌّ (س) أَبْرِيْسِيٌّ وَأَبْرِيْسِيٌّ (ن) أَبْرِيْسِيٌّ: اونٹوں کا
اچھی طرح انتظام کرنا۔ صفت أَبْرِيْسِيٌّ وَأَبْرِيْسِيٌّ جہاں

أَبْرِيْسِيٌّ

أَبْرِيْسِيٌّ (ن) أَبْرِيْسِيٌّ: راہب بننا۔

أَبْرِيْسِيٌّ: بہت اونٹوں کا مالک ہونا

الْاَبْرِيْسِيُّ: چھانٹ کر جمع کرنا۔

تَابَشَ الْاَبْرِيْسِيُّ: چھانٹ کر جمع کرنا۔

الْاَبْرِيْسِيُّ وَالْاَبْرِيْسِيُّ: اونٹ (مفرد کے لئے اس کا

استعمال نہیں ہوتا) جہاں اَبْرِيْسِيٌّ

الْاَبْرِيْسِيُّ: قبیلہ۔ کہا جاتا ہے [جاء في اَبْرِيْسِيٌّ]

وہ اپنے قبیلہ میں آیا۔

الْاَبْرِيْسِيُّ: جہاں اَبْرِيْسِيٌّ وَالْاَبْرِيْسِيُّ وَالْاَبْرِيْسِيُّ

الْاَبْرِيْسِيُّ: راہب۔

الْاَبْرِيْسِيُّ: جماعت۔ مال کا بہترین انتظام۔

حسں سیاست۔۔۔۔۔ وَالْاَبْرِيْسِيُّ وَالْاَبْرِيْسِيُّ

وَالْاَبْرِيْسِيُّ: گھاس یا کھڑی کا گٹھا۔ کہا جاتا ہے

"ضَعْتُ عَلَى اَبْرِيْسِيٌّ" یعنی مصیبت بالائے

مصیبت۔

الْاَبْرِيْسِيُّ: فرقے۔ اَبْرِيْسِيٌّ: جمع ہے اس کا

واحد نہیں طَبْرُ اَبْرِيْسِيٌّ: غول کے غول

پرنے۔

الْمَأْبِيْسِيُّ: بہت اونٹوں والی زمین۔

إِبْرِيْسِيٌّ: شیطان کا علم جس جہاں اَبْرِيْسِيٌّ و

اَبْرِيْسِيٌّ

أَبْرِيْسِيٌّ (ن) أَبْرِيْسِيٌّ: عیب لگانا۔

تہمت رکھنا الدَّمُ فِي الْمَجْرُوحِ: کالا ہو جانا۔

الْاَبْرِيْسِيُّ: عیب کینہ لکڑی کی گانٹھج اَبْرِيْسِيٌّ

ابن انقدم: پاؤں کی گھنٹیں۔

أَبْرِيْسِيٌّ: عیب لگانا۔ شرم دلانا۔ مردہ کے
اوصاف و محاسن شاکر کرنا وَقَابَنَةُ: پیچھے پڑنا۔
انتظار کرنا۔إِسْبَانُ الشَّيْءِ: کسی چیز کی ابتداء۔ کسی چیز کا
وقت۔الْاَبْرِيْسِيُّ: عیب کینہ لکڑی کی گانٹھج اَبْرِيْسِيٌّ
إِبْرِيْسِيٌّ الرَّجُلِيٌّ: سارے ساتھی۔

الْاَبْرِيْسِيُّ: بیٹا۔

الْاَبْرِيْسِيُّ وَالْاَبْرِيْسِيُّ: ایک قیمتی سخت کالی
کھڑی کا درخت جو گرم شہروں میں پیدا ہوتا
ہے۔ (یونانی لفظ)

الْاَبْرِيْسِيُّ وَالْاَبْرِيْسِيُّ: ایک قسم کی سخت اور

کالی کھڑی۔

أَبْرِيْسِيٌّ (ف) أَبْرِيْسِيٌّ: تازہ جانا۔ لَا يُؤْمِنُ لَهُ: اس

کی طرف التفات نہیں کی جاتی۔

أَبْرِيْسِيٌّ: خبردار کرنا۔ سمجھانا۔

تَابَشَ عَلَيْهِ: تکبر کرنا برا بننا۔ عَنْ سَكْدًا:

اپنے آپ کو بالا و برتر سمجھنا۔

الْاَبْرِيْسِيُّ وَالْاَبْرِيْسِيُّ: بڑائی۔ غرور۔ نخوت۔

أَبْرِيْسِيٌّ (ن) إِبْرِيْسِيٌّ وَأَبْرِيْسِيٌّ: باپ ہونا۔

الْبَيْتِمْ: پرورش کرنا۔ کہا جاتا ہے [ابو تمہ

واممتمہ] میں اُس کے لئے ماں باپ بن

گیا۔

أَبْرِيْسِيٌّ: کسی سے یہ کہنا کہ میں تمہارے

اوپر اپنے باپ کو فدا کرتا ہوں۔

تَابَشَ: فلاناً: باپ بنانا۔

إِلْاَبْرِيْسِيُّ: عیسائیوں کے نزدیک تین معبودان

میں سے اول اقوم جس کو باپ کہتے ہیں۔

إِلْاَبْرِيْسِيُّ: باپ۔ وہ شخص جو کسی چیز کے لئے

باعث ایجاد یا باعث اصلاح ہو اُس کا

اعراب حالت رفعی میں واؤ سے اور حالت

نہی میں الف سے اور حالت جری میں یا

سے آتا ہے۔ تم کہتے ہو۔ [جاء أَبْرِيْسِيٌّ]

رَأَيْتُ أَبْرِيْسِيٌّ وَمَرَرْتُ بِأَبْرِيْسِيٌّ اور منادی

کی صورت میں یا اَبْرِيْسِيٌّ اور یا اَبْرِيْسِيٌّ جہاں اَبْرِيْسِيٌّ

ابن انقدم

أَبْرِيْسِيٌّ: تاجہ مزہ دھونے کی چیز جیسے خطمی

دغیرہ۔
 أَبُو أَيُّوب: اونٹ۔ أَبُو الْأَيْبَرِد:
 گدہ۔ أَبُو الْأَسْوَد: چیتا۔ أَبُو الْأَصْبَع:
 گدہ۔ أَبُو الْأَضْيَاف: میزبان۔ أَبُو بَرِص:
 چھپکلی۔ أَبُو الْبَشَر: کنیت سیدنا آدم علیہ
 السلام۔ أَبُو ثَقِيف: سرکہ۔ أَبُو جَامِع: دستر
 خوان۔ أَبُو حُجَّادَه: ٹڈی۔ أَبُو حُجَّار:
 بچو۔ أَبُو جَعْران: گہریلا۔ أَبُو جَمِيل:
 ترکاری۔ أَبُو حَبِيب: بھنا ہوا بکری کا بچہ۔
 أَبُو حُدَيْج: لقلق۔ ابو حذیر: گرگٹ۔
 أَبُو الْخَصِيص: لومڑی۔ ابو خالد: کتا۔ أَبُو
 حَصِيب: گوشت۔ أَبُو غَفَاء: بے
 وقوف۔ ابو رزین: ایک قسم کا طوا۔ ابو
 رَعْلَة: بھیل۔ یا۔ أَبُو جَرَا: کوا۔ أَبُو هُرَّة:
 گیدڑ۔ أَبُو سُلَيْمَان: مرغ۔ ابو السرو:
 بخور۔ أَبُو غَدْرِ الْمَرَاة: شوہر۔ ابو عَسَلَة:
 بھیل۔ یا۔ ابو العفشاء: گدہ۔ ابو عَقِبة:
 سور۔ أَبُو الْعَلَاء: فالودہ۔ أَبُو عَمْرَه: الفلاس
 بھوک۔ أَبُو عَوْف: زرنڈی۔ أَبُو عَوْن:
 نمک۔ أَبُو غَرْوَان: بلی۔ أَبُو قَهْرَه: کنیت
 ابلیس۔ أَبُو قَهْرَه: گرگٹ۔ أَبُو كَلَانَة:
 زربچو۔ أَبُو لَاحِق: باز۔ أَبُو لَيْد:
 شیر۔ أَبُو مَالِك: بھوک بڑھاپا۔ گدہ۔
 أَبُو مَثْوِي: میزبان۔ أَبُو مَذْقَة: بھیل۔ یا۔ ابو
 مَرَّة: شیطان۔ أَبُو مَرْزَم: قاضی کا پیادہ۔ أَبُو
 الْمُنْهَال: گدہ۔ أَبُو مَشْغُول: تر
 پیوٹی۔ أَبُو مَرْثِنَا: بھیل۔ أَبُو مَغَاوِيَه:
 چیتا۔ أَبُو الْمَنْدِير: مرغ۔ أَبُو نَعِيم:
 روٹی۔ أَبُو الْوَقَاب: عقاب اور بقول بعض
 ازلی ہرن۔ أَبُو هَبْبَرَة: زرمینڈک۔ أَبُو
 الْهَنْسِر: زربچو۔ أَبُو يَحْيَى: ملک الموت۔
 أَبُو الْيَقْظَان: مرغ۔ کہا جاتا ہے "لا اب
 نك ولا اباك ولا اباك" یہ جملے خبریہ
 ہیں مگر معنی میں جملہ انشاء دغائیہ کے ہیں۔
 بدت و ذم دونوں موقعوں پر استعمال کیا جاتا
 ہے اور کبھی گالی کے موقع پر بھی اور "بسی
 انك" کا مقصد یہ ہے کہ میرا پ تیرے

اوپر خدا ہو۔
 أَيْسَى (فَض) اِيْنَاءُ وَ اِيْنَاءَةٌ وَ تَائِي.
 الشَّيْ: ناپسند کرنا۔ انکار کرنا۔ صفت اب ج
 آيون و اباة و اباة.
 اَبْنِي عَلَيْهِ وَ تَائِي: باز رہنا۔ خود دار ہونا۔
 اَبَاه اِيْنَاء. الشَّيْ: خود دار بنانا۔
 الاَيْسَى: نفرت کرنے والا۔ رذائل سے اپنے
 آپ کو بلند رکھنے والا۔
 رَجُلٌ اِيْنَاء: خود دار مرد۔
 تَائِبٌ وَ اتَّابٌ: بے آستین والی قمیص
 پہننا۔ الاَنْتَب: بے آستین والی قمیص ج
 اتوب و اتب و اتاب و اتاب و اتب و اتب
 الشَّعِير: بچو کا چھلکا۔
 اتابك: امیر سردار۔ اس لفظ کا اطلاق
 اولاد سلاطین کے اتالیق پر ہوتا تھا۔
 الاْتَاد: دوہنے کے وقت گائے کی ناگوں
 میں باندھنے کی رسی۔ ج آتدہ و اتد۔
 الاْتْرُجُ وَ الاْتْرُنْج: لیموں۔ لیموں کا
 درخت۔
 اْتَل (ض) اْتَلًا وَ اْتَلَاتًا وَ اْتَلَالًا: غصہ کی
 وجہ سے آہستہ آہستہ چلنا۔ مِنْ الطَّعَام:
 شہم سیر ہونا۔
 اْتَم (ن) اْتَمًا: دو چیزوں کو جمع کرنا۔
 بِالْمَكَّان: اقامت کرنا۔ تاخیر کرنا۔
 الْمَمَاتَم: لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ۔ عموماً
 اس کا استعمال اس مجمع کے لئے ہوتا ہے جو
 اظہارِ عزم کے لئے ہو۔ ج ماتم۔
 الاْتَان: گدھی۔ ج اْتَن وَ اْتَن وَ اْتَن وَ
 اِسْتَان: گدھی خریدنا اور "كَنْ حَمَارًا
 فَاسْتَان" کا مقصد یہ ہے کہ وہ صاحب
 عزت تھا ذلیل ہو گیا۔
 الاْتُون: حمام کا آتش دان۔ چونکہ بنانے کی
 بجٹی۔ ج اْتَن وَ اْتَانِین.
 اْتَا (ن) اْتَاوًا وَ اْتَاء. الشَّجْر: پھل ظاہر
 ہونا۔ نَعْت: بہت پھل دار ہونا۔ یہ و
 عَلَيْهِ: پھل خوری کرنا۔
 اْتَوْتُهُ اِنَاوَةً: رشوت دینا۔

اْتَاءُ الْأَرْض: زمین کی پیداوار۔
 الاْتَاوَةُ: خراج۔ رشوت۔ ج اْتَاوِي.
 اْتَى (ض) اْتِيَانًا وَ اْتِيَانَةً وَ مَاتَاةُ:
 آنا۔ الْمَكَّان: حاضر ہونا۔ الشَّيْ: کرنا۔
 عَلَي الشَّيْ: پورا کرنا۔ نافذ کرنا۔ الرَّجُل:
 مرد کے پاس سے گزرنا۔ عَلَيْهِ:
 الدرْهُر: ہلاک کرنا۔
 اْتَى تَائِيَةً وَ تَائِيًا. الْمَاء: پانی بننے کے لئے
 راستہ نکال دینا۔
 اْتَاءَهُ مُوَاتَاةً. عَلَي الشَّيْ: موافقت کرنا۔
 اْتَى اِيْنَاءً. فَلَانًا الشَّيْ: دینا۔ اِلَيْهِ الشَّيْ:
 بھیجنا۔ الرَّجُل: بدلہ دینا۔
 تَائِي. الْأَمْر: تیار ہونا آسان ہونا۔
 لِلْأَمْر: نرمی برتنا اور میان روی اختیار کرنا۔
 مَعْرُوفه: درپے ہونا۔
 اِسْتَأَى. الرَّجُل: آنے کی درخواست کرنا۔
 ست سمجھنا۔
 الاْتِي وَ الاْتَاوِي: اچھی۔ مسافر۔ سیل۔
 اْتِي وَ اْتَاوِي: اچانک آنے والا سیلاب۔
 الْمَائِي وَ الْمَاتَاة: جبت۔ سمت۔ کہا جاتا ہے
 "اْتَى الْأَمْر مِنْ مَاتَاةٍ أَوْ مَاتَاتِيَه" اس نے
 معاملہ کو ٹھیک طریقہ سے انجام دیا۔
 اِث (س ن ض) اِثْمًا وَ اِثْمَانًا وَ اِثْمَانَةً.
 النَّبَات وَ الشَّعْر: گنجان ہونا۔ صفت (اِث
 وَ اِثْت ج اِثَات.
 اِثْك. الْفِرَاش: بچھانا۔
 تَأْتَتْ: مال پانا۔
 الْاِثَاث: سامان خانہ۔ سال۔
 اِثْر (ن ض) اِثْرًا وَ اِثْرَةً وَ اِثْرَةً.
 الْحَدِيثُ: نقل کرنا۔ صفت مشغول
 (ماتوز)۔ اِثْرًا: اکرام و تعظیم کرنا۔
 اِثْرًا (س) اِثْرًا. يَفْعَلُ كَذَا: کرنے
 لگا۔ لِلْأَمْر: پورے اِثْمَاك سے مشغول
 ہونا۔ عَلَيْهِ: پکا ارادہ کرنا۔ عَلَيْهِم: اپنے
 لئے بہتر چیزوں کو چھانت لینا۔
 اِثْرَ فَيْدِه: اثر کرنا۔
 اِثْرَةً اِيْنَارًا: اکرام کرنا۔ چننا۔ فضیلت

<p>دینا۔ اَثْرٌ كَذَابٌ كَذِبًا: پیچھے لگانا۔ تَأْتِرُ وَتُنْشِرُ فَلَاتَا: نقش قدم کی پیروی کرنا۔ مِنْهُ وَبِهِ: اثر قبول کرنا۔ تم کہتے ہو "صاف تاثر الی اثرا" اس نے میرے ساتھ کچھ بھی احسان نہیں کیا۔ اِسْتَأْتِرُ بِالسُّبْحِ عَلٰی الْغَيْبِ: اپنے لئے مخصوص کر لینا۔ اللَّهُ بِهِ: وفات دینا۔ الْاَثَرُ: نشان۔ حدیث۔ سنت۔ مدت۔ آثار وَأَثَرٌ. عَلِمْتُ الْاَثَارَ: پرانی یادگار چیزوں کا علم۔ کہا جاتا ہے "خَرَجَ فِي (اَثَرِهِ) وَفِي (اَثَرِهِ): وہ اس کے بعد نکلا" وَ عَلَيَّ الْاَثَرُ: یعنی فوراً۔ الاقربى: ماہر آثار و قدیم۔ الْاَثَرُ وَالْاَثَرُ: زخم کا نشان۔ آثار و اَثور۔ الْاَثَرُ: تلوار کا جوہر۔ ج اَثور۔ الْاَثَرَةُ: ج اَثْرٌ وَالْاَثَارَةُ: بقیہ علم۔ خاندانی و موروثی شرافت۔ الْاَثَرَةُ: پسندیدگی۔ ترجیح۔ خود غرضی۔ الْاَثِيرُ: تلوار کا جوہر۔ معزز۔ ج اَثراء۔ فَرَسٌ. اَثِيرٌ: کھروں کے بڑے نشان والا گھوڑا۔ الْاَثِيرُ: قدماء کے نزدیک بمعنی نواں آسمان اور علماء طبعیات کی اصطلاح میں ایتھر کو کہتے ہیں اور یہ وہ مادہ ہے جس کے تہوج سے گرمی بڑھتی ہے اور آواز دور تک جاتی ہے۔ حَدِيثٌ مَثْوُورٌ: وہ بات جو قرنا بعد قرن نقل ہوتی چلی آئے اور اسی سے ہے "السَّيْفُ المَثْوُورُ" خاندانی تلوار۔ المَثَارَةُ المَثَارَةُ: عمدہ فعل۔ خاندانی و موروثی عزت۔ ج مَثَارٌ۔ اَثَمَهُ (ن) اَثَمًا: پیچھے جانا طلب کرنا۔ اَثَمَ فَاثِمًا. القدر: پائے پر رکھنا۔ تَأَثَفَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ: جم کے رہنا۔ القَوْمُ الْاَثَمُ وَ عَلَيْهِ: اکٹھا ہونا۔ الْاَثَمِيَّةُ: دیگر رکھنے کا پایہ۔ جماعت۔ ج اَثَمِي. ثَابِتَةٌ. الْاَثَمِيَّةُ: پہاڑ کے ایک حصہ کو</p>	<p>جس کے سامنے دو پتھر رکھ کر اس پر ہانڈی رکھتے ہیں کہا جاتا ہے "رَمَاهُ اللَّهُ بِسَالِفِيَّةِ الْاَثَمِيَّةِ" اللہ اس کو بدترین مصیبت میں مبتلا کرے۔ اَثَلُ (ن) اَثْوَالٌ وَ اَثَلٌ (ك) اَثَالَةٌ: جز پکڑنا۔ صفت اَثِيلٌ وَ مَوْثِلٌ۔ اَثَلٌ. الْمَالُ: زکوٰۃ دینا۔ اصل ٹھہرانا۔ الْمَرْءُ: تعظیم کرنا۔ الْمَجْدُ: مجدد بزرگی کی بنیاد رکھنا۔ تَأَثَلٌ: جز پکڑنا۔ اکٹھا ہونا۔ الْمَالُ: کما کر بڑھانا۔ الْبُئْرُ: کھودنا۔ الْاَثَلُ: جمہاؤ کا درخت جو کدریت والے علاقے کے قریب زیادہ پیدا ہوتا ہے عام طور پر زینت کے لئے بویا جاتا ہے۔ کبھی کبھی اس سے چھوٹے بڑے پیالے بنائے جاتے ہیں۔ واحده اَثَلَةٌ ج اَثَالٌ وَ اَثَالٌ وَ اَثُولٌ: کہا جاتا ہے "نَحَثُ اَثَلَةً: اس نے اسے عیب لگا یا اور اس کا مرتبہ گھٹایا۔ الْاَثَلَةُ وَالْاَثَلَةُ: گھریلو سامان۔ اصل سامان۔ الْاَثَلَةُ وَالْاَثَالُ وَالْاَثَالُ: موروثی مال یا شرافت یا بزرگی۔ اَثَمَ (س) اَثَمًا وَ اَثَمًا وَ مَثَمًا: گناہ کرنا۔ صفت اَثِمٌ ج اَثَمٌ وَ اَثِمٌ ج اَثَمَةٌ۔ اَثَمَ (ن) اَثَمًا. اللَّهُ فَلَانًا كَذًا: گنہگار قرار دینا اور نرزا دینا۔ اَثَمَةٌ: گناہ کی طرف منسوب کرنا۔ اَثَمَةٌ: مبتلائے گناہ کرنا۔ تَأَثَمَ: گناہ سے بچنا۔ الْاَثَمُ ج اَثَامٌ وَ الْمَثَامَةُ وَ الْمَثَامُ: ناجائز فعل۔ گناہ۔ جرم۔ الْاَثَمُ: بھیڑیا۔ جو اَثْرَابٌ (آخری معنی کا ابو بکر نے انکار کیا ہے) اَثَا (ن) اَثَاوُ وَ اَثَاوَةٌ وَ اَثِي وَ اَثِيَّةٌ بِهِ: چغل خوری کرنا۔ تَأَثَاوُ وَ تَأَثَاوُ: بادشاہ کے پاس مقدمہ لے جانا۔</p>
--	---

إِجَاصٌ : آلو بخارا۔ زرد آلو۔ أَجَلٌ (ن) : أَجَلًا - عَلَيْهِ شَرًّا : کسی کے خلاف شر اٹھانا۔ أَجَلَ (س) : أَجَلًا : پیچھے رہنا۔ دیر کرنا۔ أَجْرَانٌ : درود والا ہونا۔ صفت آجمل وَأَجَلٌ۔ أَجَلَ الشَّيْءُ : مدت مقرر کرنا۔ مہلت دینا۔ الرُّجُلُ : درود گردن کا علاج کرنا۔ تَأَجَّلَ : پیچھے رہنا۔ مدت معین کرنا۔ اسْتَأْجَلَ : مدت معین کرانا۔ أَجَلَ : ہال۔ الْأَجَلَ : مدت۔ وقت۔ موت۔ ج آجال۔ الْأَجَلَ : سبب۔ کہا جاتا ہے "مَنْ أَجَلَكَ فَعَلْتُ هَذَا" تمہاری وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ الْأَجَلَ : گردن کا درد۔ الإِجَلَ : نیل گاویوں کا گد۔ ج آجال۔ الْأَجَلَ وَالْأَجَلَ : دیر سے ہونے والا۔ آخِرَت۔ أَجَمٌ (ض) : أَجْمًا : أَجْمًا وَتَأَجَّمَ : السَّهَارُ : سخت گرم ہونا۔ تَأَجَّمَ عَلَيْهِ : خَشْيَتَاكَ : ہونا۔ تَأَجَّمَ الْأَسَدُ : جھاڑی میں داخل ہونا۔ الْأَجْمَةُ : گنجان درخت۔ جھاڑی۔ شیر کے رہنے کی جگہ۔ ج آجم و أَجْم و أَجْمَات و ج آجام۔ أَجْنٌ (ن ض) : أَجْنًا و أَجُونًا و أَجْنٌ (س) : أَجْنًا : الماء : رنگ اور مزہ بدلنا۔ صفت۔ أَجْنٌ و أَجْنٌ۔ أَجْنٌ (ن) : أَجْنًا : الثُّوبُ : کپڑے کو دھونے کے لئے کوٹنا۔ الْأَجْنَانَةُ : کپڑے دھونے کا ٹب۔ ج آجاجین تھا۔ الْمُنْحَنَةُ وَالْمُنْحَنُ : دھولے کی موگری ج ماچن أَخٌ (ن) : أَخًا : کھانا۔ الْأَخَاحُ : بیاس۔ وَالْأَخِيخُ وَالْأَخِيخَةُ : غصہ۔	أَخَذَ وَوَحَّدَ الْمُتَعَدِّدَ : ایک کر دینا۔ العَدَّةُ : ایک بڑھا دینا۔ اتَّخَذَ بِهِ : کٹھا ہونا۔ متفق ہونا۔ واتَّخَذَ : اکیلا ہونا۔ اسْتَأْخَذَ : اکیلا ہونا۔ الْأَخَذُ : ایک اکیلا۔ یکتا۔ مَوْنَتٌ : اِخْدَى : کہا جاتا ہے "فَلَانٌ أَخَذَ الْأَخْدَيْنِ" فلاں بے مثل ہے۔ اِخْدَى الْأَخْدَ : بڑا عجیب معاملہ۔ أَخَذَ : ایک ایک۔ کہا جاتا ہے "جَاؤَا أَحَادًا و أَحَادًا أَحَادًا" : یعنی وہ لوگ ایک ایک کر کے آئے الْأَخْدَ : التوار کا دن۔ یک شنبہ۔ ج آحاد۔ أَخْدٌ : مدینہ منورہ زاد با اللہ شرفا کے قریب ایک پہاڑ کا نام۔ الْأَخْدِيَّةُ : یکتائی۔ أَجْنٌ (س) : أَخْنًا : پوشیدہ دشمنی اور کینہ رکھنا۔ أَجْنٌ مُوَاحِنَةُ الرُّجُلِ : کسی سے دشمنی رکھنا۔ الْأَخْنَةُ : کینہ ج آجن الْأَخِيخَةُ : دودھ یا مٹی ملا ہوا آنا۔ الْأَخِيخُوطُ وَالْأَخِيخُوطُ : جگنو کی قسم کا ایک کیزا۔ أَخَذَ (ن) : أَخَذًا و تَخَذًا : لینا۔ وہ بہ پکڑنا۔ بَدَنِيَّةٌ : سزا دینا۔ مواخذہ کرنا۔ عَلَى يَدِهِ : کرنے سے روک دینا۔ مِنْ شَارِبِهِ : چھانٹنا۔ کرنا۔ عَنْهُ : بقل کرنا۔ سَيِّئًا : عَلَى نَفْسِهِ : نگرانی کرنا۔ فِيهِ : الضَّمْرُ : اِثْرُ كَرْنَا : نَفْعُلُ : کرنے لگنا۔ فِي تَحَدًا : شروع کرنا۔ أَخَذَهُ وَاخَذَهُ : طریقہ اختیار کرنا۔ کسی کے اخلاق کو اپنانا۔ أَخَذَهُ : جا دو کرنا۔ أَخَذَهُ مُوَاحِدَةً : ملامت کرنا۔ عتاب کرنا۔ عَلَى ذَنْبِهِ و بَدَنِيَّةٌ : سزا دینا۔ اتَّخَذَ : کروینا بنا دینا عا جز ہونا اتَّخَذَهُ وَتَخَذَهُ (س) : تَخَذًا : صدیقاً : دوست بنا لینا۔	اسْتَأْخَذَ : درود کی وجہ سے سر جھکانا۔ الْأَخْذُ : آشوب چشم۔ الْأَخْذَةُ : افسوس منتر درندوں کے شکار کے لئے گڑھا۔ الْأَخْذَةُ : بے حس یا اعضاء کی بیوست۔ الْإِخْذَةُ : پانی جمع ہونے کی تالاب جیسی جگہ ج إِخْذَاتٌ و إِخْذَاتٌ و إِخْذَاتٌ : جمع أَخْذٌ الْإِخِيدُ : قیدی۔ ج أَخْذِي۔ الْأَخِيذَةُ : لڑائی میں دشمن سے چھینا ہوا مال غصب کیا ہوا مال۔ المُخْذُ : راستہ لینے کا طریقہ یا وقت یا وہ جگہ جہاں سے کوئی چیز لی جائے ج آخِذ۔ الْمَأْخِذُ : پھندے جال۔ أَخْرَجْنَا خَيْرًا : هُ عَنهُ : پیچھے کرنا۔ تَأَخَّرَ و اسْتَأَخَّرَ : پیچھے رہنا۔ الْآخِرُ : غیر۔ ج آخِرُونَ : مَوْنَتٌ : أُخْرَى و أُخْرَى : ج آخِر و أُخْرَى : بطور کنایہ بولتے ہیں "أَبْعَدَ اللَّهُ الْآخِرَ" : یعنی اللہ اس شخص کو دور کرے جو ہم میں سے نہیں ہے۔ الْأَخْسَرُ : پیچھا حصہ۔ کہا جاتا ہے "سَقَى الثُّوبُ أَخْرًا و مِنْ أَخْرٍ" : اُس نے کپڑے کو پیچھے سے پھاڑ دیا۔ الْآخِرَةُ : دمری۔ کہا جاتا ہے "جاء أَخْرَةٌ و بَأَخْرَةٍ" : وہ آخریں آیا۔ الْآخِرُ : پیچھا۔ ج آخِرُونَ : مَوْنَتٌ : أُخْرَى : ج آخِرَاتٌ : کہا جاتا ہے "لَا أَفْعَلُهُ آخِرُ الدَّهْرِ و أُخْرَى اللَّيَالِي" : یعنی میں اس کو بھی نہیں کروں گا۔ أَخْرِيَاتٌ : الجَنِينَةُ : باخ کا آخری حصہ۔ الْآخِرَةُ وَالْأَخْرَى : دار البقا اور نسبت کے لئے أَخْرَوِيٌّ۔ المُؤَخَّرُ و المُوَخَّرَةُ : ج ماخرو والآخرة۔ مِنْ الْعَيْنِ : تپنی کی طرف آگھ کا گوشہ۔ مُوَخَّرَةُ الرُّجُلِ و مُوَخَّرَتُهُ و آخْرَتُهُ : کجاوہ کا پیچھا حصہ۔ الْمِنْخَارُ مِنَ النَّخْلِ : کھجور کا درخت جس کا
---	---	---

<p>الادام: ہر موافق و مناسب چیز۔ سالن۔ ج۔ آدام و اذم۔</p>	<p>صاحب ادب ہونا۔ صفت اذیب ج اذبا۔ اذب (ض) اذبا و اذب ایدبا: دعوت کا</p>	<p>بچل جاڑے کے آخر تک باقی رہے۔ ج۔ ماخیر۔ مؤخو: الشی: چیز کا پھلنا حصہ۔</p>
<p>الاذم: ہر وہ چیز جس کو سالن بنایا جاسکے۔ الاذمۃ و الادم: چیز کے کا ظاہری یا اندرونی</p>	<p>کھانا تیار کرنا۔ اذنبہ و اذنبہ دعوت میں بلانا۔ کہا جاتا ہے "اذنبہم علی الامر" اس</p>	<p>آخا (ن) اخوة: ہجائی یا دوست بننا۔ آخی: لیلذایۃ: اخیہ: بنانا (دیکھئے لفظ</p>
<p>حصہ کہا جاتا ہے "فلان اذم قومہ و اذم بنی ابیہ و اذمۃ قومہ" فلاں اپنی قوم کا</p>	<p>نے ان سب لوگوں کو کام پر جمع کر دیا۔ اذب: مہذب بنانا۔ شائستہ بنانا۔ ادب</p>	<p>آخیدہ) آخی اخیاء و مؤاخاة و اخوة: ہجائی یا دوست بننا۔</p>
<p>سردار ہے۔ آدم: سیدنا ابوالبشر آدم علی نبینا وعلیہ السلوة و</p>	<p>سکھلانا۔ جرم پر سزا دینا۔ تاذب: مہذب و شائستہ بنانا۔ ادب سیکھنا۔</p>	<p>تآخی: ہجائی بنانا۔ یا بھائی کہہ کے پکارنا۔ توخی: تصد کرنا۔</p>
<p>السلام کا اسم گرامی۔ افزا جس پر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ ج اوادم: نسبت کے</p>	<p>کسی کے اخلاق پر اٹھنا۔ یہ: اقتدا کرنا۔</p>	<p>تآخیاً: باہم بھائی بھائی ہونا۔ الآخ و الاخ و الاخو و الاخو: بھائی۔</p>
<p>لئے آدمی۔ الاذم: گندم گوں۔ مؤنث اذماء ج اذم۔</p>	<p>استاذب: ادب سیکھنا۔ الاذب: اخلاقی ملکہ جو ناشائستہ باتوں سے</p>	<p>ساکھی۔ دوست۔ شنیہ۔ اخوان ج اخوة و أخوة و اخوان و اخوان و اخون و</p>
<p>الاذام: چیزے کی تجارت کرنے والا۔ الادیم: پکایا ہوا چیز۔ اذیم التہار: دن کی</p>	<p>روکتا ہو۔ زیرکی۔ خوش طبعی۔ ج آداب: نیز آداب کا اطلاق ہر قسم کے علوم و معارف پر</p>	<p>آخاء: اور بقول بعض الاخوان اس آخ کی جمع ہے جو دوستی کے لحاظ سے بھائی کے معنی میں</p>
<p>روشنی۔ کہا جاتا ہے: "ظلم اذیم التہار صائبنا" وہ پورے دن روزہ سے رہا۔ اذیم</p>	<p>ہوتا ہے یا ان کے صرف دلچسپ حصے پر۔ کسی چیز یا کسی شخص کے مخصوص قوانین جیسے آداب</p>	<p>ہے اور الاخوة اس آخ کی جو کسی بھائی کے معنی میں ہے اور نسبت کے لئے آخوئی و</p>
<p>الصخی: چاشت کی ابتداء۔ اذیم اللیل: رات کی تاریکی۔ والادیم من السماء او</p>	<p>مجلس۔ آداب درس وغیرہ علم ادب۔ وہ علم جس کے ذریعہ بول چال اور تحریر کی غلطیوں</p>	<p>آخی۔ الأخت: بہن۔ ج اخوات۔ الأخیة و الأخیة: رتی جس کے دونوں</p>
<p>الارض: آسمان یا زمین کا ظاہری حصہ۔ ج۔ آدم و اذم و اذمۃ و اذام۔</p>	<p>سے محفوظ رہے۔ الأذبة و الماذبہ و الماذبۃ: کھانا جو دعوت</p>	<p>سرے زمین میں گاڑ دیتے ہیں اور اوپر کو حلقہ سا نکلا ہوا ہوتا ہے جس میں جالوروں کو</p>
<p>الاذمۃ: قربت۔ وسیلہ۔ أذوا (ن) أذوا. القصر: یکنا اللبیب: بگاڑھا</p>	<p>کے لئے تیار کیا جائے۔ ج مآذیب۔ أذ (س) أذرا. السرجل: آماں خصیہ والا</p>	<p>باندھتے ہیں۔ ج آواخی و آخیا و آواخ کہا جاتا ہے بسد اللہ بینکمما آواخی الاخفاء:</p>
<p>ہونا۔ اذوا۔ اللبیب: بلونا۔ السرجل: دھوکا و قریب دینا۔</p>	<p>ہونا۔ صفت آذر۔ الأذرة و الأذرة: آماں خصیہ۔</p>	<p>اللہ تعالی تم دونوں کے درمیان بھائی بندی کے علاقہ کو مضبوط کرے۔</p>
<p>تآذی و تآذی: آلہ بنانا۔ تیاری کرنا زمانہ کے حوادث کے دفعیہ کے لئے اسباب مہیا کرنا۔</p>	<p>الأذاف: آلہ تامل۔ کان۔ أذل (ض) أذلا. السجرج: کھر نڈا ترنا۔</p>	<p>آخیون: ناگ بچی۔ أذ (ض) اذآ. الالذیل: مصیبت کا</p>
<p>الاذاة: آلہ ج اذوات۔ الاذوا: چیزہ کا چھوٹا ترن۔ ج اذواوی۔</p>	<p>اللبن: بلونا۔ الباب: بند کرنا۔ (اقرب)۔ الاذل: گردن کا درد۔ گاڑھا کھادودھ۔</p>	<p>اچانک آنا۔ الامر: بھاری اور دشوار ہونا۔ الرجل فی الارض: سفر کرنا۔</p>
<p>أذی: (ض) اذینا و اذی تآذیۃ۔ الشی: پہنچانا۔ ادا کرنا۔</p>	<p>..... و آدم ایداما. بین منخاصمین: صل کرنا۔ الفت و الفتاق پیدا کرنا۔</p>	<p>تآذذ. الامر: سخت و ہولناک ہونا۔ صفت آذیہ۔</p>
<p>أذی اذیۃ: تیاری کرنا۔ قوی ہونا۔ علیہ: مدد کرنا۔</p>	<p>آدم (ن) اذما. اہلیہ: اپنے لوگوں کے لئے مضمونہ بنانا۔</p>	<p>الابذ و الالذۃ: سخت و دشوار کام۔ مصیبت ج اذا و اذذ۔</p>
<p>تآذی. لہ من حقیہ: ادا کرنا۔ البیہ الخبز: پہنچانا۔</p>	<p>آدم (س) اذما و اذم (ک) اذمۃ: گندم گوں ہونا۔</p>	<p>آذب (ک) اذبا: زیرک و دانش مند ہونا۔</p>
<p>تآذی. فلانا المال: لینا۔ علیہ: مدد چاہنا۔ الالذاء: ادا کیگی۔ پہنچانا۔</p>	<p>الاندم: سالن سے روٹی کھانا۔</p>	
<p>إذ: زمانہ ماضی کے لئے ظرف ہے اور اس کے</p>		

بعد ہمیشہ جملہ واقع ہوتا ہے اور کبھی جملہ کو حذف کر دیتے ہیں اور اس کے عوض تنوین لاتے ہیں۔ جیسے "مفنی جاء حکم الموت فحينئذ تعلمون" یہ اصل میں یوں ہے "فحينئذ يجي تعلمون" اور کبھی منفا جاتے کے لئے آتا ہے جیسے "بينما انا جالس اذ جاء زيد" اور کبھی لام تعلیل کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے جیسے "ضربت ابني اذ ساء" میں نے اپنے بیٹے کو مارا اس وجہ سے کہ اس نے گستاخی کی تھی۔

اذا: زمانہ مستقبل کے لئے ظرف ہے اور معنی شرط کو متضمن ہوتا ہے جیسے "اذا اجتهدت نجحت" جب تم کوشش کرو گے تو کامیاب ہو گے اور حرف منفا جاتا بھی ہے جیسے "حسرت نجث فاذا انسذ بالباب" میں نکلا تو اچانک دروازہ پر شیر تھا۔

اذا و اذار: ناہ مارج۔ (روی میں نے کا نام) الاذريون: سورج کا نام۔

اذمنا: حرف شرط ہے بمعنی ان اور دو فعلوں کو جزم دیتا ہے جیسے اذ ما نغم اقم۔

اذن و اذا: حرف جواب و جزا ہے۔ مثلاً تم سے کوئی کہے کہ "ازورك غذا" تو اس کے جواب میں تم کہو گے "اذن اكرهك"۔

اذن (س) اذنا: اليه و له: کان لگانا۔ سنا۔ کہا جاتا ہے "حدثت فاذن لي احسن" الاذن: میں نے بات چیت کی تو اس نے اچھی طرح کان لگا کر بات سنی۔

اذنا و اذينا: له في الشيء: اجازت دینا۔ مباح کرنا۔ اذنا و اذنا و اذنا و اذنا بالشئ: جاننا۔

اذنه (ن) اذنا: کان پر مارنا۔ گوشمالی کرنا۔ اذن: کسی کے کان میں درد ہونا۔

اذن ايدنا: فلانا الامر و بالامر: جتنا تا۔ آگاہ کرنا۔ الرجل: کان پر مارنا۔ العشب: خشک ہونے لگانا۔

واذن نادينا بالصلاة: اذان دینا۔ اذن الولد: کان گرم کرنا۔

قاذن: قسم کھانا۔ لامر: آگاہ کرنا۔ جتنا تا۔ بالشئ: ذرانا۔ الامير في الناس: امیر کا اعلان کرنا اور دھمکانا۔

استاذن: اجازت طلب کرنا۔ عليه: اندر آنے کی اجازت مانگنا۔

الاذن: اجازت علم کہا جاتا ہے "فعلناه باذني" اس نے اس کو میری دانشمندی میں کیا۔

الاذن و الاذن: كان (موت) ج اذان: تصغير ازنية: اذان الفسارو..... العجدي و الازن و..... القيل: مختلف حیوانات کے کان اذن الكوز: ٹوٹی۔ کہا جاتا ہے "فلان اذن من الاذن" فلاں ہر ایک کی بات سن کر مان لیتا ہے اور یہ لفظ واحد ہی مشبہ جمع مذکر مؤنث سب میں استعمال ہوتا ہے جیسے "هي اذن هم اذن هم اذن" اور کہا جاتا ہے "جاءنا بشرا اذنيه" وہ لالچ کرتا ہوا آیا و جاء لابسا اذنيه" وہ غافل ہو کر آیا۔

الاذن: خواہش۔

الاذن: خبردار کرنا۔

الاذن و الاذني: بڑے کان والا۔

الاذين و المودقن: اذان دینے والا۔

الاذين: سردار۔ لیڈر۔ قلیل۔

المسندة: اذان دینے کی جگہ۔ منارہ۔ ج ما زن۔

اذی (س) اذی و اذاة: تکلیف پانا۔ صفت اذی۔

اذی ایداء: الرجل: تکلیف پہنچانا۔

تاذی: تکلیف اٹھانا۔

الاذی و الاذية و الاذاسة: تکلیف رنجش۔

الاذی: تکلیف زدہ۔

الاذی: سخت تکلیف پہنچانے والا۔ سخت تکلیف پانے والا۔

الاذی: مونج دریا۔ ج او اذی۔

اوب (ض) اربنا: العغد: مضبوط گرہ لگانا۔ الرجل: عضو پر مارنا۔

اوب (ک) اربنا و اربنا: عقل مند و انا ہونا۔ صفت ارب و اوب۔

اوب الشئ: مضبوط کرنا۔ الشاة: نکلنے نکلنے کا ٹٹا۔

اربنا مواربة: قریب دینا دھوکا دینا۔ ارب اربنا: علیہم: کامیاب ہونا۔

تارب: بہ تکلف زیرک بننا۔ الامر: دوشار ہونا۔

استارب: مغالطہ دینا۔ دشمنی چھپاتے ہوئے مدارات کرنا۔ قرش لینا۔

الارب: حاجت ضرورت انتہاء۔ ج ارب۔ ارب: عضو۔ کہا جاتا ہے "قطعت الذبيحة اربنا اربنا" یعنی میں نے ذبیحہ کے عضو عضو کو کاٹنا۔ ضرورت۔ ج ارب۔

والارب: چالاکی۔ حیلہ۔

الارب: اگشت شہادت اور بیچ کی انگلی کے درمیان کا فاصلہ۔

الارب: چالاکی۔ پیدائش کے وقت کے گائے بھری کے بیچ۔

الارب: گرہ۔ کتے کے گلے کا پدہ۔ ج ارب۔

الارب: ران کی جڑ۔

الارب: جیگا مچھلی۔

الارب و المناربة بلسيت راء ماربة: حاجت ج مارب۔

الارب: گرگٹ کے سر کے بال۔

ارث: دیکھنے مادہ و ورث۔

ارث: بھڑکانا۔ تارثت: النار: بھڑکانا۔

الارث و الاراث و الاراث: آگ۔

ارح (س) اربنا: ماہر ہونا۔ صفت ارب ارب: موت اربنا۔ ارب بالشئ: مشتاق ہونا۔ ماہر و انا ہونا۔ اليه: بھجان ہونا۔ الرجل: کسی کے اعضاء کا گرجانا۔ عليه: قوی

ماںد سرخ ہوتا ہے۔ الأرض والارضون: آرگن۔ ایک قسم کا پاج آرٹ تاریفًا: حد بندی کرنا۔ الخيل: گڑھ اگانا آرٹ: غلی الارض: محدود کیا جاتا۔ الأرض: دو زمینوں کے درمیان حد فاصل علامت گره ج آرف۔ الأرضی: زمین کی پیمائش کرنے والا۔ خالص دودھ۔ کہا جاتا ہے "هو قوارفی" یعنی اس کے مکان کی حد میرے مکان کی حد کے متصل ہے۔ أرق (س) آرقا و انترق: رات میں نیند نہ آنا۔ صفت ارقی و ارقی و ارق و ارقی: آخر کا کمر اس شخص کے لئے جس کی عادت ہی بے خوابی کی ہو۔ أرقه تاریفا و أرقه ایروفا: بیدار رکھنا۔ البرقان والأرقان والأرقان الأرقان والأرقان والأراق: براقان۔ بیماری جس میں آدمی کا رنگ سیاہ یا زرد ہو جاتا ہے اور یہ عارضہ کھیت کو بھی ہو جاتا ہے۔ أرك (ن) ش) ازوئحا۔ الجمل: بیلو کے پتے کھانا۔ أرك (س) ازگسا و أرك۔ الجمل: بیلو کے پتے کھانے سے پیٹ میں درد ہوتا۔ أرك و أرك الجرح: زخم کا اچھا ہو جانا۔ الأراك: درخت بیلو۔ واحد أراكه ج أرك و اراک۔ الأریكة: آراستہ مزین تخت۔ ج اراک و اریک۔ کہا جاتا ہے "هو كرمم المناروك" وہ کرم الاصل ہے۔ اریک: زخم کا کچا ہونا۔ الأزلة: وہ چیز جس کو ختم کے وقت کاٹتے ہیں۔ أزم (ض) ازما۔ ما علی المنابذة: سب کچھ چٹ کر جانا۔ الأرض: زمین میں جزو شاخ کچھ باقی نہ چھوڑنا۔ صفت مفعولی أزماء و ماؤمة۔ الشی: جزے قسم کر	أرض: القوم: قوم کا سردار۔ الأرض: صنوبر کا درخت۔ الأرضو الأرضو الأرضو: چاول۔ دھان۔ الأرض: بخیل أرس (ض) أرسا و أرس: کاشکار ہونا۔ الأریس: کاشکار۔ ج اریسون الأریس: کاشکار بڑا کاشکار ج اریسة و اریس و اریس۔ الأرس: پاکیزہ نسب۔ أرض (ن) أرضا۔ ہمزگانا۔ دیت دینا۔ أرض: بینہم: فساد الٹا۔ ایک کو دوسرے کے خلاف اکسانا۔ الحزب أو النار: ہمزگانا۔ الأرض: دیت۔ رشوت۔ ج أرضوش أرض (ن) أرضا و أرض (ک) أرضة المکان: سرسبز اور خوش منظر ہونا۔ صفت أریض۔ أرضت (س) أرضا و أرضت: الخشبنة: دیمک خوردہ ہونا۔ أرض: الکلام وغیرہ: آراستہ کرنا۔ تیار کرنا۔ تأرض: بالمکان: اقامت کرنا۔ زمین میں جم کے رہنا۔ لکنذا: درپے ہونا۔ استأرض: الشحاب: زمین سے قریب فضا میں پھیل جانا۔ الأرض: زمین۔ ج أرضسون و أرضوش و اراض و اراض: زکام۔ جوڑی بخار۔ کہا جاتا ہے "اتسانا ابن أرض" ہمارے پاس غیر معروف النسب مسافر آیا "أرض الثعلب" جو تہ کی تلی۔ الأرضة: ایک قسم کا کیرا جو کڑی کھاتا ہے دیمک۔ ج أرض۔ المناروض: دیمک کھائی ہوئی کڑی۔ الأرضی شوکی: زمین پر پھیلنے والا ایک خاردار پودا۔ الأرضی: ایک درخت جس کا پھل عناب کی	باطل کی آمیزش کرنا۔ أرج: القوم و بینہم: اکسانا۔ ایک کو دوسرے کے خلاف ہمزگانا۔ صفت أراج النار: روشن کرنا۔ الأراج: بڑا جھوٹا۔ المورج: شیر۔ الأرجوان: ایک پھولدار درخت کا نام۔ سرخ رنگ۔ سرخ رنگ کے پتے۔ أرض تاریخا و أرض فوارجة: الكتاب: تاریخ نکالنا۔ التاریخ: وقت کا بیان۔ تاریخ الشی: کسی چیز کے واقع ہونے کا وقت ج تواریخ۔ علم تاریخ: ایسا علم جس میں حوادث و واقعات مع تاریخ کے بیان کئے جائیں۔ الأرض: تیل۔ ج أرضوخ۔ الأرض: تیل گائے۔ واحد ارضة أراض و اراض۔ الأرضیة: پہاڑی بکری کا بچہ۔ الأرض: ایک بڑا پیمانہ جس میں چوبیس (۲۴) ساغ ملتا ہے۔ أرض (ن) أرضا: الدابة: جانور کو ہانکنا۔ دھکارنا ۔ دور کرنا۔ المرأة: عورت سے جماع کرنا۔ النار: آگ ساگانا۔ السلح: پانچنا کرنا۔ أرض (ف) أرضا: الساجن: جوئے میں غلبہ کے وقت ارے ارے رہنے کہنا۔ الأرضة: آگ۔ أرض (ن) أرضا و أرضا: سمناسکرنا۔ کہا جاتا ہے "فلان یأرض الی وطیہ" فلاں ہر پھر کے اپنے وطن ہی کی طرف آتا ہے۔ اللیل: ٹھنڈی ہونا۔ صفت أرض و أرض و أرض اور کہتے ہیں "بناليلة أرضة یا أرضمن فیها لیلثة بردها" ہم نے ایسی ٹھنڈی رات گزاری جس میں ہر شخص سردی کی شدت کی وجہ سے سکر جا رہا تھا۔ "و أرضت أصابغه من البرد" اس کی انگلیاں سردی کی وجہ سے سکر گئیں "و شجرة أرضة" وہ درخت جو بڑھ چڑھے۔
--	--	--

اردی: السرجل: نرم مزاج بنانا۔ السخيل: مضبوط بنانا۔	أرعى: الذابة: جانور کے لئے تھان بنانا۔
الأزوم: دارمیں۔ کہا جاتا ہے بخری علیہ النار: سلگانا۔ بھڑکانا۔
الأزوم: وہ اس کے اوپر غصہ کی وجہ سے	أرزى: بالمسكان: اقامت کرنا۔ عند:
دانت پیتا ہے۔ پتھر۔ انگلیوں کے	چھپے رہ جانا۔
کنارے۔ کنگریاں۔	الأزى: شہد کھانا جو دیگ کی تلی میں جل کر
الأزم والأزم: میدان میں رہنمائی کیلئے	چپک جائے۔
نصب کئے ہوئے پتھر۔ کہا جاتا ہے "مابہنا	الأزىة: جانور کا تھان۔
إزم أو ازم" اس میں کوئی نہیں۔ اس کا	الأزاة: کوہان کی چربی۔
استعمال ہمیشہ لٹی میں ہوتا ہے۔ ج آرم و	أزث (نض) آزا و آزا و آزبازا. القذر:
أزوم۔	جوش مارنا۔ سننا۔ القذر و بہا: جوش
الأزومة والأزومة والأزوم: درخت کی	دینے کے لئے آگ جلانا۔ از علی گدا:
جز۔ ج آزوم اور حسب کے لئے استعارہ	بھڑکانا برا سمجھنا۔ الشى: جمع کرنا۔
استعمال کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے "نفس	تأزز. المجلس: اہل مجلس کا منتظر ہونا۔
ذات أكرومة من اطياب أزومة" یعنی	اسم الأزاة ہے۔
کریم النفس و کریم الاصل۔	الأز: چوڑے وغیرہ کا درو۔
الأزومة: نشان راہ۔ ج آزم۔	الأزى: بادل گرچ۔ دیگ کی سننا ہٹ۔
أرن (س) أرنسا و أرنسا و أرنسا. البعير:	سردی۔
نشاط میں آتا۔ صفت أرن و أرون۔	أزب (ضن) أزبا. الماء: جاری ہونا۔
أرنہ (ن) أرننا: دانت سے کاٹنا۔	الأزب: لیم۔ پست قدم۔ چالاک۔
أرنہ مؤازرة و ارننا: مفاخرت کرنا۔	الأزب و الأزب: لمبا۔
الأزان: تابوت۔ ج آزن۔ الأزان: تلواری۔	الأزب: پرنا۔ بدرو۔ پانی بہنے کی جگہ۔
الأزان و المنوران: وحشی جانوروں کے رہنے	تا بدان۔ ج نمازب۔
کی جگہ۔ ج نمازب۔	الأزبة: شدت و قحط۔
سقاء ازان: جنگلی تیل۔	أزج (ض) أزوجا. فی مشیتہ: تیز چلنا۔
الأزبة: تر پیر اور بقول بعض ایک دانہ کا نام	أزج (س) أزجا. العشب: گھاس کا طویل
ہے جس کو دودھ میں پییر بنانے کے لئے	ہونا۔
ڈالتے ہیں۔	أزج (ن) أزجا. عنى: مدد طلب کرنے کے
الأزین و الأزانى و الأزنى: ایک قسم کا دانہ	وقت کا ہلی کرنا۔
جو دودھ کو پییر بنا دیتا ہے۔	أزج. النبت: لمبا بنانا۔
الأزون: زہر اور بقول بعض ہاتھی کا بیجا۔	الأزج: لمبا مکان۔ ج أزج و أزاج و
الأزوية و الأروية: پہاڑی کبرا (مذکر و	إزجة۔
مؤنث دونوں کے لئے مستعمل ہے)۔ ج	الأزج: ناز و انداز سے چلنے والا۔
أراوى و أراو و أزوى.	فوس أزوج: تیز رفتار گھوڑا۔
أردی (ض) أرنبا. النخل: شہد بنانا۔	أزج (ض) أزوحا و تسارح: دیر لگانا اور
أردی (س) أرنبا. صدرة علی: غضب	چھپے رہ جانا۔ صفت أزوح. أزحت قدمه:
ناگ ہونا۔	پھسلنا۔
	الأزحرت و الأزادارخت: ایک درخت کا

نام ہے۔

الأزاد: ایک قسم کی کھجور۔

أزز (ض) أززا. بالشى: احاط کرنا۔ النبات

: گتہ جانا۔

وأزز. فلانا: قوی کرنا۔ أززة: ڈھانچنا۔

أززة مؤازرة: مدد دینا۔ ثم خواری کرنا۔

تأزز و تأززو و تأززر: ازار پہننا۔ تہ بند

باندھنا۔

الأزرة: قوت۔ پیٹھ کہا جاتا ہے "شذبہ

أزرة" اس کو اس کے ذریعہ قوت حاصل ہوتی

اور اسی سے قرآن میں ہے "أفشد ذنبہ

أزرى" یعنی اس کے ذریعے مجھے قوت

دے۔

الأزر: جز۔ تہ بند۔

الأزر: تہ بند باندھنے کی جگہ۔

الأزررة: تہ بند باندھنے کی ہیئت۔ کہا جاتا ہے

"لکل قوم أزرة یا تزونها" یعنی ہر ملک و

ہر رسمے۔

الأزار: ہر وہ چیز جو تم کو چھپا لے۔ چادر۔

یا کد امی۔ تہ بند۔ پشتمہ دیوار۔ ج آزرة و

أزر۔

الأزارة: تہ بند۔

المسنزرة و المسنزة: تہ بند۔ ج مآزر: کہا جاتا

ہے "شذبہ لاسر مسنزة" جب کہ مستعدی

ظاہر کرے۔ "نصر مؤزر" پوری مدد۔

أزف (س) أزفا و أزوفا: قریب ہونا۔

الرجل: جلدی کرنا۔ المبوخ: زخم بھر جانا۔

أزفه إيفافا: جلدی کرنا۔

تأزف. الرجل: پست قدم ہونا۔ بدخلق ہونا۔

تأزف: قریب قریب قدم رکھنا۔ القوم:

بعض کا بعض سے قریب ہونا۔

الأزف: جنگی و بد حالی اور اس سے ہے۔ "فی

عشبة آزف" اس کی زندگی تنگ ہے۔

الأزفة: قیامت کا دن۔

الأزفی: تیز رفتاری و جستی "بمشی الأزفی"

وہ تیز چلتا ہے۔

أزق: (نض) أزقا و أزق: (س) أزقا

و تازیق: تنگ ہونا۔	المازم: تنگ جگہ۔ میدان جنگ۔ جہازم۔	الاست: جز۔ بنیاد۔ سرین۔
المازفة: پانچاند۔ جہازق۔	الازومة: سخت قحط کا سال۔	الاستاذ: معلم۔ مدرس۔ عالم۔ جہازاستاذة و
المازاة و الممازاة: چھوٹا توشہ	آزی مؤازلة. الرجل: ایک دوسرے کے	استاذ: اور تاجروں کی اصطلاح میں
وان مکان متمازق: تنگ جگہ۔ روجل	مقابل اور قریب ہونا۔	حسابات کا جنرل رجسٹر۔
متمازق: پست قدمرد۔	تازی تازیانا. القوم: باہم قریب ہونا۔	الاستاز: فی القعدی: چار..... فی الوزن:
المتمازق: تنگ دل و بدخومرد۔	تازی. عنه: مزنا۔	سازھے چار مشقال۔ جہاز استاتیر. (جدید)
آزق (نض) آزقا و آزق (س) آزقسا و	إزاء: : مقابل۔ سامنے۔ کہا جاتا ہے "	الاستسرق: موٹا ریشمی کپڑا۔ ریشم اور سونے
تازیق: تنگ ہونا۔	جلس اس إزاء و بازابہ: وہ اس کے مقابل	کے تاروں کا بنا ہوا کپڑا۔
المازق: تنگ جگہ۔ مراد ہی معنی کے طور پر	بیجا۔ إزاء الأمر: کام کا تنظیم اور کہا جاتا ہے	الاسترا نتیجیة: یونانی لفظ ہے اور فوجی کے
میدان جنگ کو بھی کہا جاتا ہے۔ جہازمازق۔	"هم إزأؤهم" وہ لوگ ان کے مماثل ہیں۔	انگلے دستے میں لشکر کو چلانے کا ایک خاص
الازون: (علم کیسیا) ایک قسم کی گیس جو تین	اس (ن) اسأ. الذار: بنیاد رکھنا۔	آرٹ ہے۔
آکسیجن سے بنتی ہے۔ اس کی علامت	بین الناس: فساد پھیلانا۔	الاستحازة: مشرقی بادشاہی کا ہنوں کا
○ ہے۔	أسس: البیت: بنیاد رکھنا۔	مخصوص لباس۔
ازل (ض) ازلا و نازل: بنگلی وختی میں پڑنا۔	الاس و الاس و الاس: جہاز اساس	استیدو یا استودو: فلموں کے بنانے کا یا
صفت ازل۔ ازلہ، روکنا۔ باز رکھنا۔	والاس و الاس ج اسس و اساس:	تصاویر اتارنے کا مقام۔ (اسٹوڈیو)
الازل: بلا مصیبت۔ جھوٹ۔	بنیاد۔ کسی چیز کی ابتداء۔ الاس: چوبے میں	الاستیلین: ایک بے رنگ اور بے بو گیس
الازل: بیٹنگلی۔ وہ زمانہ جس کے لئے ابتداء	تھوڑی راگھ۔	خطرناک قسم کی ہے۔ قدرتی ذخائر کے کھونج
نہ ہو۔	الاساس: چغلی خور۔	میں بے حد کام آتی ہے۔
الازلیسی: قدیمی۔ وہ ذات جس کے وجود کی	اساس: (کیمسٹری) کا ایک مادہ جس کی	اسد (ض) اسدا و اسدا و اسدا اسدا
ابتداء نہ ہو۔	جذر O.H. کے تحت نمکین پودے سے پانی	الکلب بالصنید: اُکسانا۔ برا بھانتہ کرنا۔
المازل: تنگ جگہ۔	اور نمک الگ کیا جاتا ہے۔	اسد بین القوم: فساد انگیزی کرنا۔
ازمہ (ض) ازما و ازوما: دانت سے کاٹنا۔	اسنیداج و اسفیداج: سفیدہ کا شغری۔	اسد (س) اسدا: شیر کو دیکھ کر دہشت
الخل: رسی کو مضبوط بنانا..... اللشہر علیہ:	مؤسنة: کارپوریشن ادارہ کارخانہ	کھانا۔ اخلاق میں شریکی طرح ہونا..... علیہ
سخت ہونا۔ بصاحبہ: ہمیشہ ساتھ ساتھ رہنا۔	الجنسی اسٹیٹوشن فرم کہا جاتا ہے مؤسنة	جرات کرنا۔
عن الشی: رکنا۔ علیہ..... محافظت	علمیة: علمی ادارہ مؤسنة	تاسد و استاسد: شیر کی مانند ہونا۔
کرنا۔ الباب: دروازہ بند کرنا۔	صناعیة: کارخانہ۔ علیہ: جرات کرنا۔ و استاسد البیت:
تاسزم. القوم: بنگلی اور قحط سالی لاحق ہونا۔	الاست: جز۔ بنیاد۔ سرین۔	انتہائی لبا ہونا۔
زمانہ کی سختی سے درومند ہونا۔	الاست: اصل بنیاد سرین۔	الاست: شیر۔ نرم مادہ دونوں کے لئے مستعمل
الازم و الازمة و الازوم: کچلی۔ نوکدار	اسبانج: (نبات) ایک مزیدار سبزی۔	ہے۔ کہا جاتا ہے۔ "هو الاست. ہی
دانت تازم و اوازم و ازم۔ الازم: پرہیز	اسفیداج یا اسفیداج: سفید چھرے۔	الاست" جہاز اسد و اسود و اسد و اسد
کرنے والا۔	الاسبیرین: ایک دوائی جو کہ سرد اور بخار	و اساد: جنگل کے شیر اور شیرنی کو لٹوہ کہتے
الازم: پرہیز۔ کہتے ہیں "اصل محل دواء	کے لئے استعمال کرائی جاتی ہے۔ اردو میں	ہیں۔
الازم: ہر دوا کی جز پرہیز ہے۔ الازم:	اسیرین کے نام سے مشہور ہے۔	ذاء الاست: کوڑھ۔
قوت۔	الاناسب: زانو کے بال۔ اندام نہانی کے	الاست: شیر کے رہنے کی جگہ یا وہ جگہ جہاں
الازمة و الازمة: سختی و بنگلی۔ قحط۔ جہازم و	بال۔ ڈبر کے بال۔ جہاز اسباب۔	شیر بہت ہوں۔ جہاز اسد۔
ازم و ازمات و اوازم. الازمة: دن میں	اسناناخ و اسفانناخ: پاک۔	الاست: تکیہ۔
ایک ہی مرتبہ کھانا۔	اسنیداج و اسفیداج: سفیدہ کا شغری۔	اسرہ (ض) اسرا و اسارة: تہمدے

پاندھنا۔ آسره آسرا و اسارا و استاسره: قید کرتا۔ تاسر: علیہ..... دیر لگانا۔ استاسر: قیدی بننے کے لئے اپنے آپ کو حوالہ کرنا۔ الاسر: کہا جاتا ہے "هَذَا لَكَ بِأَسْرِهِ" یہ کل تمہارے لئے ہے۔ الاسار: تمہاریاں۔ الاسر: پیشاب کارکنا۔ الاسرة: خاندان۔ مضبوط زرہ۔ ج اسر۔ الاسیر: قیدی۔ ج اسری و اسراء و اساری و اساری۔ ماسورة: ج مواسیر ہر پوری والا گول چاہے کا ہو یا لوہا یا سیہ۔ الاسرب و الاسروب و الاسرب: سیہ۔ الاسطبل: اصطبل۔ ج اسطبلات الانسطاطیفی: علم الجمال وہ علم جس میں خوبصورتی کے بارے میں عموماً بحث کرے یا اس شعور کے بارے میں بحث ہو جو جمال دلوں میں ابھارے۔ (یونانی لفظ ہے)۔ الاسطر العین: ایک پودا جس کے پھول سفید یا گلابی یا سبزی ہوتے ہیں۔ الانسطر الغاناس: ایک درخت جس سے گوگرد پیدا ہوتی ہے اور طب میں بطور دوا استعمال کی جاتی ہے۔ الاسر: شیشہ۔ الاسراب و الاسروب و الاسرب: سیہ۔ الانسطبل: اصطبل۔ ج اسطبلات الاسطرلاب: ایک قسم کا آلہ جس سے نجومی ستاروں کی بلندی کا اندازہ کرتے ہیں۔ الانسطقس و الانسطقس: اصل و مخمر مادہ۔ ج اسطقسات: قدامہ فلاسفہ کے نزدیک عناصر راجعہ کو کہتے ہیں۔ الانسطوزة: قصہ۔ کہانی۔ ج اساطیر۔ الانسطول: جنگی جہازوں کا بیڑہ۔ ج اساطیل۔ الانسطوانة: ستون۔ کھمبا۔ جانور کی ٹانگ۔	ج اساطین: کہا جاتا ہے "هُنَّ اساطِينُ الزَّحَّانِ" وہ لوگ زمانے کے حکماء اور مخصوص افراد ہیں۔ اسف (س) اسفا۔ علیہ: غمگین ہونا۔ افسوس کرنا۔ صفت۔ اسف۔ اسفہ ایسافا: غضبناک کرنا۔ غمگین کرنا۔ تاسف: افسوس کرنا۔ تاسفت یذہ: پھٹ جانا۔ کہتے ہیں "یا اسفٰی و یا اسفا علی کذا" مجھے اس پر کس قدر افسوس ہے۔ الاسوف: جلدی غمگین ہونے والا۔ نرم دل۔ الاسیف: غمگین۔ وہ شخص جو موٹا نہ ہوتا ہو۔ ج اسفاء موفت اسفئة۔ الایسف: قیدی۔ حدیث میں ہے "لَا تَقْتُلُوا عَمِيْقًا وَلَا اَسِيْفًا" مزدور اور قیدی کو قتل مت کرو۔ ارض اسيفة و اسافة: وہ زمین جس میں اچھی طرح پیداوار نہ ہو۔ الاسافة: افسوس۔ زمین کی نرمی۔ الاسيفة: باندی۔ الاسفنج: اسفنج۔ واحد اسفنجة۔ الاسفند: سفید رائی۔ اسپند۔ الاسقنقوز و السقنقوز: ایک قسم کا دریائی جانور ہے جو گرم ممالک میں ہوتا ہے اور سے بڑا اور موٹا ہوتا ہے اور دم چھوٹی ہوتی ہے۔ اسقمری: سمندری لمبی چھلی جس کا گوشت لذیذ ہوتا ہے۔ الاسکلة: بحر روم کی ہر بندرگاہ۔ ج اساکل۔ اسل (ک) اسالة و اسال (س) اسلا: نرم ہموار لہا و ملائم ہونا۔ صفت اسیل: موفت اسيلة۔ اسل: الوضوح: تیز کرنا۔ ان کی مانند بنانا۔ تاسل: اخلاق و عادات میں مشابہ ہونا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ عَلِيٌّ اَسَالٌ مِنْ اَبِيهِ" وہ اپنے باپ کے مشابہ ہے۔ اسال: کامفرد نہیں آتا۔ الاسل: پتلی اور لمبی شاخوں والی ایک قسم کی نباتات و احد اسلة: تیزی اور ہر تیز اور پتلی	تلوار اور چھری۔ الاسلة: زبان کی نوک۔ ذراخ کا پارکیک حصہ۔ الاسم: دیکھنے والے مادہ س م و۔ اسامة: شیر کا علم جنس۔ اسن (نض) اسنا و اسونا و اسن (س) اسنا و تاسن۔ الساء: متغیر ہونا۔ بدبودار ہونا۔ صفت اسین۔ تاسن و ذہ: بدل کرنا۔ تاسن انباء: باپ کے اخلاق اختیار کرنا۔ اسن (س) اسنا۔ الرجل: سڑے ہوئے پانی والے کتوں میں داخل ہونے سے بے ہوش ہونا یا سر چکراتا۔ صفت اسین۔ الاسن: چوٹی کا بقیہ۔ جو آسان۔ الامان: آثار قدیمہ۔ آسان الیاب: کپڑے کے بوسیدہ اور مٹھے ہوئے حصے۔ الاسن: رشکی لڑی۔ ج اسنون۔ اسان (ن) اسوا و اسنا۔ الجرح: علاج کرنا۔ الرجل: تلی دینا۔ صفت مفعولی اسی۔ و اساسو..... بنہم: صلح کرنا۔ ہ بفلان: کسی کو کسی کے لئے نمونہ قرار دینا۔ اسی قاسیة الرجل: علاج کرنا۔ تلی دینا۔ بدد کرنا۔ اسی مواسلة۔ الرجل فی حالہ: مالی ہمدردی کرنا۔ اسية: بنفسی: اپنے برابر سمجھنا۔ قاسی: صبر کرنا۔ تلی پانا..... والتسی: بہ: اقتداء کرنا۔ پیروی کرنا۔ تاسی: القوم: ایک دوسرے کو تلی دینا۔ الاسوة و الاسوة: اقتداء۔ نمونہ وہ چیز جس سے تلی حاصل ہو۔ ج اسی و اسی۔ الاساءة: دوا۔ ج اسية۔ الاسو: دوا۔ الاسی: معالج۔ طیب۔ ج اساءة و اساء: موفت اسية: ج اسیات و اواس۔ الاسوان: غمگین۔ الاساء: تلی دینا۔
--	--	---

الأسا: صبر۔

أَسَى (ض) أَسَى لَهُ مِنَ الشَّيْءِ: کسی کے لئے باقی چھوڑنا۔

أَسَى (س) أَسَى: ممکن ہونا۔ صفت آس و

أَسْيَانٌ مِّنْ أَسْيَانُونَ: مؤنث أَسِيَّةٌ: أَسْيَانَةٌ

أَسْيَانَةٌ وَأَسْيَانٌ وَأَسْيَانٌ

أَلْمَسَاسَةٌ: تکلیف دہ حادثہ جو ممکن کر دے۔

ایسا خوفناک ایکٹ (ڈرامہ) جو لوگوں کو

سراسیمہ کر دے۔

الآسِیَّة: ستون مِجِ اَوَاسٍ: کہا جاتا ہے

"مُلْکٌ ثَابِتٌ الْاَوَاسِی" مضبوط سلطنت۔

الْأَشُّ: سبھی روٹی۔

أَشَبُّ (س) أَشْبَا وَتَأَشَّبَ، الشَّجَرُ:

گنجان ہونا۔ گتہ جانا۔ صفت أَشْبَبُ.

أَشْبَهَهُ (ض) أَشْبَهَا: ملا مت کرنا۔ عیب گیری

کرنا۔ القُومُ: مختلف لوگوں کو ملا کر گروہ

بنانا۔

أَشْبَبَ الشَّجَرُ: گنجان کرنا۔ القُومُ:

اُکسانا۔

تَأَشَّبَ وَتَأَشَّبَ: القُومُ: مل جل جانا۔

الْأَشْبَبُ: درختوں کا اس طرح گنجان ہونا کہ

جس سے گزرتا دشوار ہو۔

الْأَشْبَابَةُ: لوگوں کا مخلوط گروہ۔ کمائی جس میں

حرام ملا ہوا ہو۔ نَسَبٌ مَّأَشُوبٌ.

مُؤْتَشِبٌ: مخلوط غیر خالص نسب۔

أَشْبَحَ (س) أَشْبَحَا: غضبناک ہونا۔ صفت

أَشْبَحَانٌ: مؤنث أَشْبَحَى (صاحب تاج

العروس کا بیان ہے کہ اس کی اصلی جگہ باب

الواو ہے اس لئے کہ ہمزہ اس میں اصلی

نہیں)

أَشْرَ (س) أَشْرًا: تکبر کرنا۔ اُکڑنا صفت أَشِرٌّ

وَأَشْرٌ وَأَشْرَانٌ: مِجِ أَشْرُونَ وَأَشْرُونَ وَ

أَشْرَارٌ وَأَشْرَارِي.

أَشْرَ (ض) أَشْرُوا: الخَشْبَةُ: چیرنا۔

وَأَشْرُ: الأَشْنَانُ: کناروں کو تیز کرنا۔

أَشْرَ وَأَشْرُ: المِنْشَارُ: آرے کے دندانے

واحد أَشْرَةٌ.

الآبِشَرُ: مڈی کے پاؤں کا خار۔ مڈی کے دم

کے سرے پر کی گڑہ۔ مِجِ اَوَاشِيرُ.

الْأَبَشِيرُ: مڈی کے منہ کا وہ حصہ جس سے وہ

کسی چیز کو کاٹتی ہے۔ مڈی کے پاؤں کا خار۔

مِجِ تَأَشِيرِ.

أَشْرَ عَلَيَّ: وَزَقَّةٌ: کسی کام کیلئے تحریر اجازت

نامہ لکھنا۔

أَلْمَشَارُ: آرہ۔ مِجِ مَاشِيرٍ وَمَوَاشِيرِ.

الإشْفَى: ستالی۔ مِجِ أَشْفَى، أَشْفَى.

الإشْقِيلُ: ایک قسم کی نباتات۔

الأُشْنَةُ: ایک قسم کی نباتاتی چیز جو درختوں پر پھلتی

ہے۔

الأَشْنَانُ وَالْأَشْنَانُ: ایک قسم کی نباتات جس

کو ہاتھ دھونے میں استعمال کرتے تھے۔

أَصَّ: الشَّيْءُ: توڑنا۔ نرم کرنا۔

أَصَّصَ: الشَّيْءُ: مضبوط کرنا۔

تَأَصَّصُوا وَالتَّصَّصُوا: جمع ہونا اور بھیڑ کرنا۔

الأَصِصُ: شکتہ برتن۔ گملہ۔ پیشاب

کرنے کا برتن۔ مضبوط عمارت۔ کچی۔

الأَصِصَةُ: قریب قریب کے گھر۔

أَصَدَّ وَأَصَدَّ: الباب: بند کرنا۔ وَأَصَدَّةٌ:

چھوٹی قمیص پہنانا۔

الأَصْدَةُ: چھوٹی قمیص۔ کرتی۔ مِجِ أَصَدَّ

وَأَصَدَّةٌ.

الأَصْدَةُ: قوم کے جمع ہونے کی جگہ۔ مِجِ

إِصْدَ.

الأَصِيدُ: صحن خانہ۔

الأَصِيدَةُ: بازہ۔ چھوٹی قمیص۔ کرتی۔

الأَصَادُ وَالْأَصْدَةُ: طبق۔ الإِصَادُ:

چوکھٹ۔ پہاڑوں کے درمیان گڑھا۔ جس

میں پانی جمع ہو۔

المُؤَصَّدُ: چھوٹی قمیص۔ کرتی۔

أَصْرَ (ض) أَصْرًا: الشَّيْءُ: توڑنا۔ الخَيْمَةُ:

خیمہ کے لئے تخت بنانا۔..... فَلَانَا عَلَيْهِ

: متوجہ کرنا۔ مہربان بنانا۔

أَصْرَةَ مُوَاَصْرَةً: پڑوسی ہونا۔

تَأَصَّرُوا: یا ہم پڑوسی ہونا۔

إِنْتَصَرَ: القُرُومُ: کثیر التعداد ہونا۔

النَّيْتُ: لمبی اور گنجان ہونا۔

الأَصْرُ وَالْإِصْرُ وَالْأَصْرُ: عہد۔ بیان۔

بوجھ۔ گناہ۔ مِجِ أَصَارَ كَانِ كَأَسْوَارِ.

الأَصَارُ مِجِ أَصْرٍ وَالْأَيْصَرُ مِجِ إِيَابَصِرِ.

الإِصَارَةُ: خیمہ کی رسیوں کا ٹکھٹا۔

الْأَصْرَةُ: تعلق۔ رشتہ داری۔ مِجِ اَوَاصِرِ.

إِضْطَبَلَ: اصْطَبَلَ.

أَصْطَرَكَ: ایک خوبصورت درخت تین

سے چھ میٹر لمبا ہوتا ہے اس کے پتے سفید

ہوتے ہیں پھول مالے کے پھول جیسے

ہوتے ہیں۔ دودھ والے درخت کے نام

سے مشہور ہے۔ صحت کے لئے بڑا فائدہ مند

ہے۔

الإِضْطَفَلَيْنِ: گاجر۔ واحِدًا ضْطَفَلَيْنَةَ

الإِضْطَلْكُمَةَ: راکھ میں پکی ہوئی روٹی۔

الأَضْطَوَانَةُ: ستون۔ کھمبا۔ جانور کی

ٹانگ۔ مِجِ أَضْطَابِنٍ وَأَضْطَابِنَةٍ.

الاصْفُ: ایک قسم کا درخت۔

أَصْلُ (ک) أَصْلُهُ: جڑ والا ہونا۔ جڑ

پکڑنا۔ شریف الاصل ہونا۔..... زَائِنَةُ:

عہد ہونا۔ صفت أَصِيلٌ.

أَصِيلُ (س) أَصِيلًا: المَاءُ: کچھڑکی وجہ سے

متغیر ہونا۔..... اللَّحْمُ: بودار ہونا۔

أَصِيلٌ فَلَانٌ يَفْعَلُ كَذَا: بمعنی طفق یعنی

فلاں ایسا کرنے لگا۔

أَصْلُهُ: جڑ والا بنانا۔ اصل بیان کرنا۔ شرافت

بیان کرنا۔

أَصْلٌ إِنْصَالًا: شام کے وقت میں داخل

ہونا۔ شام کے وقت آنا۔ اسی سے ہے "

أَتَيْنَا مُوَصِّلِينَ" ہم شام کے وقت آئے۔

تَأَصَّلَ: جڑ والا ہونا۔

إِسْتَأْصَلَ: الشَّيْءُ: جڑ سے اکھیرنا۔

إِسْتَأْصَلَتِ الشَّجَرَةُ: جڑ پکڑنا۔

الأَصْلُ: جڑ۔ وہ چیز جو فرع کے مقابل ہو۔

والرصد روضح۔ "مَا فَعَلْتَهُ أَصْلًا" میں نے

اس کام کو یقیناً نہیں کیا۔ مِجِ أَصُولٌ

أَفْر (س) أَفْرًا: التَّبَعِيرُ: لاغری کے بعد مونا ہونا۔

الْأَفْرَةُ: جماعت۔ بلا۔ سختی۔

الْمَيْتَقَرُ: خادم۔ خدمت میں تیز لاگا۔

الْأَفْرَنْجُ وَالْأَفْرَنْجَةُ: فرنگی۔ رومیوں اور ترکوں کے علاوہ یورپین۔

أَفْرُ (ض) أَفْرًا: کوونا۔ اچھلنا۔

الْأَفْسَنْجِيْنُ: ایک قسم کی دوا کا نام۔

أَفَقَ (ض) أَفَقًا: آفاق میں جانا..... الجِلْدُ: دباغت دینا۔ صفت منقولی

أَفِيقَ جِ أَفِيقَةً وَأَفِيقٌ

أَفِيقَ (س) أَفِيقًا: گرم اور علم میں انتہا تک۔ پانچواں صفت افق و أفیق۔

أَفَقُ الطَّرِيقِ: راستہ کا درمیانی حصہ۔

الْأَفْسِقُ وَالْأَفْسِقُ: کنارہ کنارہ آسمان۔ ہواؤں کے چلنے کی جگہ۔ جِ أَفَاقٍ

الْأَفِيقَةُ: دباغت میں دی ہوئی کھال۔ سخت معیبت۔

الْأَفِيقُ: دائرہ الافق۔ یعنی کشتی کے اطراف جو زمین کے ساتھ آکر ملیں۔

الْأَفَاقِي: کمانے کے لئے آفاق میں پھرنے والا۔

الْأَفِيقَةُ وَالْأَفِيقَةُ: پہلو۔ کوکھ۔

الْأَفِيقِي: چمڑے کا بڑا ڈول۔

الْأَفِيقُ: دو خط جس پر خط عمودی واقع ہو۔

أَفَكُ (ض) أَفَكًا وَأَفُوكًا وَأَفِكُ (س) أَفَكًا وَأَفِكُ: جھوٹ بولنا۔ صفت

أَفِيكُ جِ أَفِكَاءَ وَأَفُوكُ جِ أَفِكُ وَأَفَاكُ جِ أَفَاكُونَ وَأَفِكُهُ أَفَكًا عَنِ رَأْيِهِ: رائے سے پھیر دینا۔

أَفِكُ الْمَكَاْنِ: بے ہارش والی ہونا۔ أَفِكُ الرَّجُلِ: ضعیف العقل ہونا۔

الْأَفِكُ: الْبَلْدُ بِأَهْلِهَا: اُثْرُ جَانَا..... الْأَرْضُ: خُتْكَ سَالِي سے جل جانا۔

الْأَفِكُ وَالْأَفِكَةُ وَالْأَفِيكَةُ: جھوٹ۔ گمانہ افیکہ کی جمع افایک۔

أَيَاطِلُ: پہلو۔ کوکھ۔

أَطَمَ: الْأَطَامُ: قلعوں کو بلند کرنا۔

تَأَطَمَ: السَّيْلُ: سیلاب کا بلند ہونا..... النَّارُ: آگ سے لپٹ اٹھنا..... عَلَيْهِ بَرَّابِنَا: غضبناک ہونا۔

الْأَطَمُ: قَلْعٌ: جِ أَطَامَ: الْأَطْسُومُ: سمندری کچھوا۔ ایک قسم کی موٹی کھال کی پتھلی۔ زرافہ۔ گائے۔

الْأَطِيسَةُ: آگ جلانے کی جگہ۔ چولہا۔ جِ أَطَانِمُ:

أَفَتُ (ن ض) أَفًا وَتَأَفَّفَ وَأَفَّفَ: غم اور بے قراری کی وجہ سے أف أف کہنا۔

الْأَفَفُ: بے قراری۔ دقت۔

الْأَفُ: نَاشِئِنُ كَاتِرًا شَهْرًا: کان کا میل۔

أَفٌ اسْمُ فِعْلِ يَعْصِي الطَّجِرَ وَالكَرْهَ (میں ناپسند کرتا ہوں میں بے قرار ہوں)

الْأَفَافُ: بہت أف أف کرنے والا۔

الْبِافُوفُ: تیز کا بچہ۔ کڑوا کھانا۔ تیز رفتار۔

جِ بِيَأْفِيْفُ: الْبِافُوفَةُ: پروانہ۔

الْبِافُوفُ: تالو۔ بچے کے سر کا وہ نرم حصہ جو حرکت کرتا رہتا ہے۔ جِ بِيَأْفِيْفُ کہا جاتا ہے

"ضَرَبَ بِأَفُوفِ اللَّيْلِ" رات کے اول حصہ میں چلا "وَرَكِبَ بِأَفُوفِ فَلَانٍ" وہ اس پر غالب اور فائق ہو گیا۔

الْأَفْحَادِ سِنِيًّا: عیسائیوں کے نزدیک قربان مقدس کا راز۔

أَفِدَ (س) أَفِدًا: جلدی کرنا۔ صفت

أَفِدٌ..... وَإِسْتَأْفِدَ: التَّرَجُّلُ: کوچ قریب ہونا۔

الْأَفِذُ: نَدَتُ: عاقبت۔

الْأَفِذَةُ: دیر۔ تاخیر۔

أَفَرُ (ض) أَفْرًا وَأَفُورًا: خدمت کرنے میں چستی دکھانا..... الْقِسُومُ: دھکارنا۔ دفع کرنا۔

وَالْأَفُورُ وَهُوَ تَوَامِنٌ جِنٌّ يَرْسِي عِلْمَ يَأْمَنُ كِي بِنْيَادِ هَوْتِي هِي۔

الْأَصِيلُ: مَسْرُوعٌ مَغْرِبُ كَيْ دَرْمِيَانِ كَا وَتَقْتِ جِ أَصَالٍ وَأَصَالٍ وَأَصْلٌ وَأَصْلَانٌ:

وَالْأَصِيلُ: بَغِيرٌ وَكَيْلٌ كَيْ خُودِ لَيْنٍ وَدِينِ كَرْنِي وَاللَا۔

الْأَصِيلَةُ: جِزْوَالِي "جَاوُ وَأَبَا صِيلِيهِمْ" وہ سب کے سب آئے۔

الْأَصِيلَةُ: ایک قسم کا چھوٹا یا بڑا سانپ۔ جِ أَصْلُ

أَصْلُ (ن ض) أَصْلًا: عَالِيَةً: مَجْبُورٌ كَرْنَا: مَضْطَرُ كَرْنَا: فَلَانًا: تَهْكَأْنَا۔

إِنْتَضَى: إِلَيْهِ: پناہ لینا۔ مضطر ہونا۔

الْإِضَى: جِزْ۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ كَرِيْمٌ" الْإِضَى: فُلَانٌ شَرِيْفُ الْأَصْلِ هِي۔

الْإِضَاضُ: پناہ لینے کی جگہ۔ جلن سوزش۔

الْإِضَاةُ: تَالَابُ۔ جِ جِزْ۔ جِ أَضَى وَأَضِيَاتُ:

الْإِضَاةُ: خِرْبُوزِہ کی فالیز۔ بید کا جنگل۔

أَضِمَ (س) أَضْمًا: عَلَيْهِ: غَضْبَانُ كَرْنَا: بِي تَكْلِيْفِ يَبْجَانِي لَغْنَا۔

الْأَضْمُ: كِيْنُ۔ حَسَدُ۔ غَضَبُ۔ جِ أَضْمَاتُ:

أَطَ (ض) أَطِيظًا: آواز نکالنا۔ چڑچڑانا.....

الْأَبْلُ: بِلْبَانًا: کہا جاتا ہے "هُمُ أَبْلُ أَطِيظُ" وَصَهِيْلُ "وہ اونٹ اور گھوڑے والے ہیں۔

أَطْرَهُ (ض ن) أَطْرًا وَأَطْرُهُ: موڑنا۔

بِنَاطِرُ: مَرْنَا۔

تَاطِرُ: دُورًا۔

الْأَطْرُ: کمان کا خم۔

الْأَطِيرُ: گناہ۔ کہا جاتا ہے "أَحَدُهُ بِأَطِيرٍ غَشِيْرُهُ" اس نے اس کو دوسرے کے جرم میں پکڑ لیا۔

الْأَطَارُ: چوکھٹا۔ گھیرا۔ برا حاطہ کرنے والے چیز جِ أَطُرُ:

الْأَطْرَةُ: ناخنوں پر چڑھا ہوا گوشت۔

الْأَطْلُ وَالْأَطْلُ جِ أَطَالُ: الْأَيْطَلُ جِ

الْأَفْيُوكَ وَالْمَأْفُوكَ: خیر سے محروم عاجز رائے والا۔

الْأَفْكَ: مِنَ السَّيِّئِينَ: خشک سال بج
أَوْافِكُ: السُّؤْتَفِكَاتُ: ہوائیں جو مختلف سمت سے چلیں۔ وہ بستیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے اُت کر تباہ کر دیا۔

أَفْلٌ (ض ن) وَ أَفْلٌ (س) أَفْلًا: الْقَمَرُ: غائب ہونا۔ غروب ہونا۔ ممت أَفْلٌ۔ رَجْ أَفْلٌ وَ أَفُولٌ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ كَعُفْهِ سَافِلٌ وَ نَجْمُهُ أَفْلٌ" یعنی وہ بد نصیب اور برگشتہ قسمت ہے۔

أَفْلٌ (ض ن) أَفُولًا وَ أَفِلٌ (س) أَفْلًا: الرُّجُلُ: شادماں ہونا۔۔۔۔۔ المُرْضِعُ: دودھ کا ختم ہو جانا۔

أَفَلَّةٌ: تَعْلِيمٌ كَرِيمٌ۔
تَأْفَلٌ: تَعْبِيرٌ كَرِيمٌ۔

الْأَفِيلُ: اونٹ کا بچہ۔ رَجْ أِفَالٌ وَ أِفَانِلٌ مَوْنَتٌ أَفِيلَةٌ۔

أَفِنٌ (ض) أَفْنًا: السَّاقَةُ: بے وقت دوہنا۔۔۔۔۔ اللہ فَلَانًا: ضعیف العقل بنا دینا۔

أَفِنٌ (س) أَفْنًا وَ أَفِنٌ: ضعیف العقل ہونا۔ صفت أَفِنٌ وَ مَا فَوْنٌ۔

تَأْفِنٌ: تَكْلُفًا كَسَى عَادَتٌ كَوِ اِخْتِيَارٌ كَرِيمٌ۔
۔۔۔۔۔ اَوْ اٰخِرُ الْاُمُورِ: انجام کی فکر کرنا۔

الْإِفَانُ: وقت: کہا جاتا ہے "جَاءَ فِي إِفَانٍ ذَلِكَ" وہ اس کے دوران میں آیا۔

الْأَفْيُونُ: اُپم۔
الْأَفَاقِيَا: دوا کا نام۔

الْأَفَاقَةُ: نصف رطل کا وزن۔
الْأَفْحُوسَانُ وَ الْقُحُوسَانُ: بابونہ۔ واحد أَفْحُوسَانَهُ وَ قُحُوسَانَهُ رَجْ أَفْحَاجِيٌّ وَ أَقَاحٌ۔

أَفْحَاجِيٌّ الْأَمْرُ: امر کا آغاز۔
الْأَفْطُ وَ الْإِفْطُ وَ الْأَفْطُ وَ الْإِقْطُ وَ الْإِقْطُ وَ الْإِقْطُ: رِقْطٌ۔

الْإِقْطَاتُ: پیڑ کا گڑا۔
الْإِفْصِصُ: ایک قسم کی گھاس جس کے پتے

کالسی کے پتے کی مانند ہوتے ہیں۔ تَرَشٌ

اور کڑوی ہوتی ہے۔ (لین کر اس)
الْأَفْتِنَاوَ الْأَفْتِنُوسُ: ایک قسم کی خوبصورت پتوں والی گھاس۔

أَكْذَهُ وَ كَذَا: الْعَهْدُ وَ الشَّرَاحُ: مضبوط کرنا۔ مضبوط باندھنا۔ الشَّيْ: ثابت کرنا۔

تَاكْذَهُ وَ تَوَكَّذَهُ: مضبوط ہونا ثابت ہونا۔
الْأَكْبِيدُ: مضبوط موٹن ثابت۔

الْأَكْبَائِدُ وَ النَّاسِكِيدُ: وہ تھے جس سے زین کے اگلے حصہ کو باندھیں۔

الْأَكْبِيُوسُومُ: شعاعوں والا جسم بسیط جس کی رمز (A.C) ہے۔

الْأَكْبِيدِيَّةُ: پھولوں کی قسم کا ایک پودا جس کے پھل مالٹا رنگ مزیدار ذائقے والے ہیں۔

أَكْرٌ (ن) أَكْرًا وَ تَأَكْرًا: الْأَزْهَى: جوتنا اور کاشت کرنا۔

الْأَكْحَارُ: کاشتکار۔ رَجْ أَكْحَرٌ وَ أَكْحَارُونَ: الْأَكْحَرَةُ: گیند۔ گڑھا۔ رَجْ أَكْحَرٌ۔

الْأَكْحَارُ: کاشتکار۔ رَجْ أَكْحَرَةٌ وَ أَكْحَارُونَ: الْأَشْكَازَاتُ: فقہاء کے نزدیک وہ زمین جو

زمینداری کو دی تاکہ وہ اس پر کاشت کریں اور آباد کریں۔

الْأَكْحَارِيْنَا: گانا بجانے کا ایک آلہ۔
الْأَكْحُورُ وَ دِيُونٌ: گانے بجانے کا آلہ۔

أَكْبَابِيَا: ایک درخت کا نام جو امریکہ میں پایا جاتا ہے۔ اس کی پھول اچھی ہوا والا سفید یا

گلابی رنگ پھول ہوتے ہیں۔
الْأَكْبِيْرَةُ: (کیما) جسم کا آکسیجن کے

ساتھ متحد ہو جانا۔ اس کی کئی اقسام ہیں ان میں سے ایک لوہے کا رنگ آلود ہونا اور جسم

کا گرم ہونا۔
الْأَكْبِيْسِيْدُ: وہ جسم جو دو بسیط چیزوں سے

مرکب ہوا ان دو میں سے ایک آکسیجن ہے۔
الْمُوَكَّذُ: جس کی آکسیجن نکل جائے۔

الْأَكْسُرُخُوسُ: مشرقی لوگوں کے نزدیک گر جا کا ایک عمدہ۔

الْأَكْبِيْسِيْجِنُ: ایک گیس جس میں رنگ بوبو

نہیں ہوتی سانس لینے کے لئے ضروری ہے اور ایسے ہی جسموں کو گرم کرنے کے لئے اس کی ہوا میں ارہ کی نسبت ہے۔ اس کی تعبیر (O) کے ساتھ ہوتی ہے۔

الْحَبْحُورُ الْأَكْبِيْسِيْجِنُ: وہ گرم جسم شعلے جس کی ہیٹ NA(O) اور اس میں نمک پتھل والا ملایا جاتا ہے اور جب وہ پانی میں رکھا جاتا ہے تو پھل جاتا ہے اور اس سے آکسیجن ظاہر ہوتا ہے۔

الْقَمَاءُ الْأَكْبِيْسِيْجِنِي: چپے والا سیل عام طور پر محلول شکل میں فروخت ہوتا ہے۔

أَكْفٌ وَ أَكْفٌ إِنْكَافًا: الْحِمَارُ: گدھے پر پالان باندھنا۔۔۔۔۔ الْأَكْكَافُ: پالان بنانا۔

الْأَكْكَافُ: پالان۔ رَجْ أَكْفٌ وَ أَكْفَةٌ: الْأَشْكَافُ: پالان بنانے والا۔ پالان بیچنے والا۔

أَكَلٌ (ن) أَكَلًا وَ مَا كَلًا: الطَّعَامُ: کھانا۔۔۔۔۔ الشَّيْ: فنا کرنا۔

أَكَلَةٌ (ن) إِكْلًا وَ أَكْمَالًا وَ أَكْمَالًا: رَأْسُهُ: سر کھلانا۔

أَكَلٌ (س) أَكَلًا وَ تَأَكَلٌ: الْبَسْنُ أَوْ الْعُوْدُ: دانت یا کڑی کا کھوکھلا ہو کر گر جانا۔

أَكَلَةٌ وَ أَكَلَةٌ إِنْكَالًا: الشَّيْ: کچھ کھلانا۔
أَكَلَةٌ مَوْأَكَلَةٌ: ساتھ کھانا۔ کھلانا۔

إِنْكَلٌ: بَعْضٌ كَابَعْضٌ كَوِ كَهَانَا: مِنَ الْعَضْبِ: غصہ سے جل اٹھنا۔ غصہ سے تھما جانا۔

إِنْكَلَّتِ النَّارُ: آگ کا سخت لپٹ والی ہونا۔
إِنْشَاكَلُهُ الشَّيْ: کھانا تیار کرنے کو کہنا

فَلَانٌ يَنْشَاكَلُ الضُّعْفَاءَ "فَلَانٌ غَرِيْبُونَ كَامَالٍ كَهَارٍ"۔

الْأَكْسَلُ وَ الْأَكْسَلُ: پھل۔ خوراک۔ کشادہ رزق۔

الْأَكْلَةُ: القمہ۔ غیبت

الْأَكْلَةُ: اکل کا اسم مرہ۔
الْإِكْلَةُ: غار۔ کھانے کی ہیٹ۔ غیبت۔

الْإِكْلَةُ: حارث۔
الْإِكْلَةُ: وہ بیماری جو عضو کو سڑا دے۔

الْأَكْمَالُ: کھانا۔ اسی سے ہے "مَسْرُفٌ" اِكْمَالًا" میں نے کچھ نہیں چکھا۔

الْأَشْجَالُ: خارش۔

الْأَكْمَالُ وَالْأَكْمُولُ وَالْأَكْمَلَةُ: بہت کھانے والا۔

الْأَكْمُولَةُ: بکری جو کھانے کے لئے موٹی کی جائے۔

الْأَكْمُولَةُ وَالْأَكْمِيلُ: بکری جو بھیڑیے وغیرہ کے شکار کے لئے کھڑی کی جائے۔

الْمَاكِلُ: خوراک۔ ج ماکل۔

الْمَاكِلَةُ: خوراک۔ جو چیز کھائی جائے۔

الْمِنْكَلَةُ: چھوٹا پیالہ۔

الْمِنْكَالُ: چچی۔ ج ماکیل۔

الْمَاكُولُ: خوراک۔ جو چیز کھائی جائے۔ ج ماکیل۔

أَجَلُ الشَّمْلِ: ایک جانور ریزہ والا پستان والا۔

الْأَكِلَةُ: عضو میں بیماری کا کیزا۔

إِسْتَاكَمَ: التَّمْوِضُ: نلہ بن جانا۔

الْأَكْمَةُ: نلہ۔ چھوٹی پہاڑی۔ ج اَكْمٌ

وَأَكْمَاتٌ جِجْ أَكَامٌ وَأَكْمٌ وَأَكَامٌ.

الْمَاكِمُ وَالْمَاكِمَةُ: سرین کا گوشت۔

الْمَاكِيمُ: عمکین۔

الْأَكْمَةُ: آشیانہ۔ گھونٹا۔

الْإِكَاءُ: مٹک وغیرہ کا سر بند۔

أَكَمَى (ض) أَكْمَا: دستاویز لینا۔

أَلٌ: حرف تعریف ہے کبھی عہدی ہوتا ہے جیسے

"إِسْتَشْرَيْتَ عَبْدًا ثُمَّ بَعَثَ الْعَبْدَ" میں نے

غلام کو خرید اور پھر اسی غلام کو بیچ دیا اور کبھی

جس جیسے "خَلِقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا" انسان کو

کمزور پیدا کیا گیا ہے اور کبھی اسم موصول

پر ہوتا ہے۔ جب کہ اسم فاعل و اسم مفعول پر

داخل ہو جیسے "جَاءَ نَيْسَى الضَّارِبُ

وَالْمَضْرُوبُ" اور صفت مشبہ پر جو داخل

ہوتا ہے اس میں ج مذہب یہ ہے کہ وہ حرف

تعریف ہے۔

أَلٌ (ن) الْأُ: نیزے سے مارنا۔ دھتکارنا۔

الرُّجُلُ: دوڑنا..... اللُّونُ: رنگ صاف ہونا۔ چکنا۔

أَلٌ (ض) الْأُ وَاللُّ وَاللَّيْلَةُ: السَّمْرِيُّضُ:

کراہنا..... الرُّجُلُ فِي ذُعَانِهِ: گڑگڑانا۔

أَلَّتْ (س) الْأَلُّ: الْأَسْنَانُ: دانتوں کا خراب ہونا۔

أَلَّتِ الشَّيْءُ: کسی چیز کو نوک دار بنانا۔

الْإِلُّ: عہد۔ پڑوسی۔ عمدہ اصل۔ عداوت و کینہ۔

الْأُلُّ: پہلا۔

الْأُلُّ

الْأَلَّةُ: چھوٹا نیزہ۔ جنگ کا سارا سامان۔

الْأَلَّةُ: نالہ و زاری کرنے کی ہیئت۔ قربت ج الُّ. نالہ و زاری۔

الْأَلَّةُ: مویشی جس کی چراگاہ دور ہو۔ ج الُّ.

الْأَلِيَّةُ: مویشی جس کی چراگاہ دور ہو۔

فَرَسٌ مِثْلُ: تیز رفتار گھوڑا۔

الْأُ: ایک لفظ ہے جو کلام کے شروع میں

مخاطب کو متوجہ کرنے کے لئے اور مابعد کی

چیزوں پر زور دینے کے لئے مستعمل ہے

جیسے "الْأَنَّهُمْ هُمُ الشُّفَّاءُ" خبردار رہو یقیناً

یہی بے وقوف ہیں۔ حرف تشبیہ جیسے "

الْأَبْصَاحُ قَمٌ" خبردار اسے سنبھالو۔

حرف عرش جیسے "الْأَنْتَوْنُ بِنَا" یعنی براہ کرم

ہمارے پاس آئیے۔ حرف تفضیل جیسے "

الْأَتَّصُوبُ وَتَرْتَدُّ عَنِ غَيْبِكُمْ" تمہیں توبہ

کر لینا چاہئے اور اپنی شرارت سے باز

آ جانا چاہئے۔

الْأُ: حرف تفضیل جیسے "الْأَنْتُمْ كَرَمٌ أَبْوَابِكُمْ"

تو تم کو اپنے والدین کی عزت کرنی چاہئے۔

الْأُ: حرف استنہار۔ جیسے "جَاءَ الْقَوْمُ إِلَّا

زَيْدًا" زید کے علاوہ سب لوگ آئے اور کبھی

صفت کے لئے غیر کے معنی میں بھی آتا ہے

جیسے "لَيْسَ رَجَالٌ إِلَّا رَجَالُكَ" میرے

آدی تمہارے آدمیوں کے علاوہ ہیں اور کبھی

لفظ کے بعد صفت کے لئے آتا ہے جیسے "مَا

ضَرَبَ إِلَّا زَيْدًا" یعنی زید ہی نے مارا۔

أَلْبٌ (ن ض) أَلْبًا وَتَأَلَّبٌ: جمع ہونا۔ أَلْبَتِ السَّمَاءُ: پیہم برسنہ۔

أَلْبٌ (ن ض) أَلْبًا وَأَلْبٌ: جمع کرنا۔ أَلْبٌ بَيْنَهُمْ: فساد انگیزی کرنا۔

الْأَلْبُ: کسی شخص کی عداوت پر اکتھا ہونے والی قوم کہا جاتا ہے "هُمُ عَلَيُّ أَلْبٌ

وَإِحْدٌ" وہ سب میری عداوت پر ایک ہیں۔

أَكْثَتِ شَهَادَاتُ أُوغُوخِي وَكَرْمَانِ أُوغُوخِي

فَاكْتَسَبَتْ شَهَادَاتُ أُوغُوخِي وَكَرْمَانِ أُوغُوخِي

فَاكْتَسَبَتْ شَهَادَاتُ أُوغُوخِي وَكَرْمَانِ أُوغُوخِي

فَاكْتَسَبَتْ شَهَادَاتُ أُوغُوخِي وَكَرْمَانِ أُوغُوخِي

فَاكْتَسَبَتْ شَهَادَاتُ أُوغُوخِي وَكَرْمَانِ أُوغُوخِي

فَاكْتَسَبَتْ شَهَادَاتُ أُوغُوخِي وَكَرْمَانِ أُوغُوخِي

فَاكْتَسَبَتْ شَهَادَاتُ أُوغُوخِي وَكَرْمَانِ أُوغُوخِي

فَاكْتَسَبَتْ شَهَادَاتُ أُوغُوخِي وَكَرْمَانِ أُوغُوخِي

فَاكْتَسَبَتْ شَهَادَاتُ أُوغُوخِي وَكَرْمَانِ أُوغُوخِي

فَاكْتَسَبَتْ شَهَادَاتُ أُوغُوخِي وَكَرْمَانِ أُوغُوخِي

فَاكْتَسَبَتْ شَهَادَاتُ أُوغُوخِي وَكَرْمَانِ أُوغُوخِي

فَاكْتَسَبَتْ شَهَادَاتُ أُوغُوخِي وَكَرْمَانِ أُوغُوخِي

فَاكْتَسَبَتْ شَهَادَاتُ أُوغُوخِي وَكَرْمَانِ أُوغُوخِي

فَاكْتَسَبَتْ شَهَادَاتُ أُوغُوخِي وَكَرْمَانِ أُوغُوخِي

فَاكْتَسَبَتْ شَهَادَاتُ أُوغُوخِي وَكَرْمَانِ أُوغُوخِي

فَاكْتَسَبَتْ شَهَادَاتُ أُوغُوخِي وَكَرْمَانِ أُوغُوخِي

فَاكْتَسَبَتْ شَهَادَاتُ أُوغُوخِي وَكَرْمَانِ أُوغُوخِي

فَاكْتَسَبَتْ شَهَادَاتُ أُوغُوخِي وَكَرْمَانِ أُوغُوخِي

فَاكْتَسَبَتْ شَهَادَاتُ أُوغُوخِي وَكَرْمَانِ أُوغُوخِي

فَاكْتَسَبَتْ شَهَادَاتُ أُوغُوخِي وَكَرْمَانِ أُوغُوخِي

فَاكْتَسَبَتْ شَهَادَاتُ أُوغُوخِي وَكَرْمَانِ أُوغُوخِي

فَاكْتَسَبَتْ شَهَادَاتُ أُوغُوخِي وَكَرْمَانِ أُوغُوخِي

فَاكْتَسَبَتْ شَهَادَاتُ أُوغُوخِي وَكَرْمَانِ أُوغُوخِي

فَاكْتَسَبَتْ شَهَادَاتُ أُوغُوخِي وَكَرْمَانِ أُوغُوخِي

فَاكْتَسَبَتْ شَهَادَاتُ أُوغُوخِي وَكَرْمَانِ أُوغُوخِي

فَاكْتَسَبَتْ شَهَادَاتُ أُوغُوخِي وَكَرْمَانِ أُوغُوخِي

المؤلف: مرغوب و مانوس چیز۔ مع المؤلف۔ المؤلف: مصنف۔ ہزار کا مالک۔ اللق (ش) القفا و القلق و انطلق. البرق: بجلی چمکانا۔ کوندنا۔ اللق: الرجل: جھوٹ بولنا۔ اللق القفا: دیوانہ ہونا۔ صفت منسلق و مضالوق۔ اللق: بحیریا۔ ج الق: بدخلق۔ الالقفة: بندریا۔ الاولق: دیوانگی۔ جنون۔ اللاق: بغیر بارش کے بجلی۔ اللاق: جھوٹا۔ المالوق: دیوانہ۔ المسلق: بے وقوف۔ الک (ش) الکا و الوکة و الوکما و مالک و الک الاکة: پیغام پہنچانا۔ الفرس اللجام: گھوڑے کا گام کو چبانا۔ استالک: الوکة: کسی کا پیغام لے جانا۔ المسلك. و الملاک: فرشتہ۔ ج ملائک و ملائکة. اللوک و الالوكة و السالک و السالکة: پیغام۔ ج الایک و مالیک. المالوک: دیوانہ۔ اللالککوزون: بہت بار یک عنصر جس کا وجود نظر آئے انتہائی خطرناک منفی چارج والا۔ الم (س) الما: دکھی ہونا۔ صفت الم الم تالیما و المة ایلاما: دکھ دینا۔ تالم: دکھی ہونا۔ الالم: دکھ۔ ج الام. الایم: دردناک۔ الایماس: بیہرا۔ الالمیومیوم: ایک سفید سا کان خفیف موصل حرارت اور بجلی کے لئے بہت فائدہ مند ہے گھریلو برتنوں میں عام استعمال ہوتی ہے۔ بسیط جسم جس کی رمز A.L ہے۔ الم (ف) الموهة و الالهة الموهية: پرستش کرنا۔ بندگی کرنا۔	المالوس: دیوانہ۔ خلل دماغ والا۔ الاولق: دیوانگی۔ المالوق: دیوانہ۔ اللق (س) القفا: مانوس ہونا۔ محبت کرنا۔ صفت الق و الالق و القلق ج الالق و الق ج الالق اور اسم الالقفة: الق المکان و القة ایلاما: کسی جگہ سے مانوس ہونا۔ الق (ن ش) القفا: ایک ہزار دینار دینا۔ القفة ایلاما و مؤالقفة: باہم انس و محبت کے ساتھ رہنا و القہ المکان ایلاما: کسی جگہ سے کسی کو مانوس بنا دینا۔ القفہم: ہزار بنانا۔ القو: ہزار ہونا۔ الق الکتاب: مسائل کو جمع کرنا۔ الق: ایک گود دوسرے سے ملنا تاہنہم: محبت ڈالنا۔ محبت واقع کرنا۔ الالق: پور۔ ہزار کرنا۔ تالق: ایلاما ہونا۔ تالق الشی: اجزاء کا مرتب طور سے اکٹھا ہونا۔ تالقہ: اوپر سے دل سے محبت کرنا۔ تالقو او تالقو: اکٹھا ہونا۔ استالق: دوست و ساتھی ڈھونڈنا۔ اللق و الالقہ: دوستی۔ اللق: ہزار۔ ج الق و الق و الق. اللق: حروف تہجی کا پہلا حرف۔ ہر چیز میں کا ایک مرد جس کی بیوی نہ ہو۔ بازو کے اندرونی حصہ کی ایک رگ کا نام۔ الق: السطیر: گھروں میں رہنے والے پرندے۔ القفة: الق کی طرف نسبت اور اصطلاحاً اس قصیدہ کو کہتے ہیں جس میں کسی فن کے قواعد بیان کئے گئے ہوں۔ جس کے اشعار کی تعداد ہزار ہو اور ان میں مشہور تر القیہ ابن مالک ہے۔ الق: محمد۔ پروانہ راہداری۔ الق: مصدر۔ کتاب۔ الق: بہت محبت کرنے والا۔ ج الق.
---	--

الْأَلْيَةِ: دہلی کی بجلی، منشی الیان بغیر تاء کے۔ جِ الْأَيَا وَالْيَاتِ۔
 الْأَلْيُ وَالْأَلْيُ وَالْأَلْيُ: نعمت جِ الْأَاءِ،
 الْأَلَاءِ وَالْأَلْيُ: ایک قسم کا درخت جو ہمیشہ سبز رہتا ہے اور اس کا پھل کڑوا ہوتا ہے۔ واحد الْأَلَاءَةُ۔
 الْأَلَايُ: فوج کا دست جِ الْأَيَاتِ: ترکی کلمہ ہے۔ اس کے لئے عربی "فیلق" ہے۔
 الْإِسِي: حرف جر ہے۔ معانی ذیل میں مستعمل ہے انتہاء زمانہ کے لئے جیسے "فِرْسِ الْإِسِي الْمَسَاءِ" اس نے شام تک پڑھا۔ انتہاء مکان کے لئے جیسے "سَارَ الْإِسِي النَّيْتِ" وہ گھر تک چلا۔ بمعنی عند جیسے "كَلَامَةُ أَطْسِي الْإِسِي مِنْ الرَّحِيقِ" اس کی گفتگو میرے نزدیک شراب سے زیادہ مرغوب ہے۔ بمعنی لام جیسے "الْأَمْسُ الْإِيكَ" معاملہ تیرے اختیار میں ہے۔ بمعنی مع جیسے "طَمَّ هَذَا الْإِي ذَاكَ" اس کو اس کے ساتھ ملا لو۔
 الْإِيكَ: اسم فعل بمعنی دور رہو۔ جیو جیسے "إِيكَ عَيْسِي" یعنی تو مجھ سے دور ہو جا اور بمعنی خد جیسے "إِيكَ الْكِتَابِ" یعنی کتاب کو لے لو۔
 الْإِسِي: اُولِي: کی جگہ استعمال ہوتا ہے جیسے الْعَرَبُ الْإِلْيُ "قدماء عرب۔ اُولِي اسم اشارہ جمع قریب کے لئے ہے۔
 اُم: حرف عطف: مزہ استعمال کے بعد تسویہ اور برابری کے مفہوم کے لئے آتا ہے۔ جیسے "أَقْرَبُ أُمَّ بَعِيدَ مَا تَوْعَدُونَ" اور کبھی بل کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ۔
 أُمَّ (ن) أَمَا وَأُمَّ وَأَمَّمْ وَأَمَّتْ: تصد کرتا و أمّة: چند یا پرمارتا۔ دماغ پر صدمہ پہنچاتا۔
 إِمَامَةٌ وَأَمَّا وَإِمَامًا. الْقَوْمُ وَبِالْقَوْمِ: امام بنا۔
 أُمَّتٌ أُمُومَةٌ: ماں ہونا۔
 تَأَمَّمُ: الْمَرْأَةُ: ماں بنانا۔

إِنَّمْ: یہ: اقتدا کرتا..... وَاِسْتَأَمَّ: ہ۔ امام بنا۔ اِسْتَأَمَّ الْمَرْأَةُ: ماں بنانا۔
 الْإِمَامُ: ماں۔ کسی چیز کی اصل جِ اُمّهات و اُمّات اور بقول بعض اُمّهات: انسان کے لئے اور اُمّات: بہائم کے لئے۔ اُمُّ أَرْبَعٍ وَ أَرْبَعِينَ: کن گھجورا۔ اُمُّ أَوْرَاصٍ: سبھی جنگلی چوہا۔ اُمُّ الْبَيْضِ: شتر مرغ۔ اُمُّ النَّسَائِفِ: دور کا جنگل۔ اُمُّ تَوَلَّبٍ: گدھی۔ اُمُّ جَابِرٍ: ہریہ۔ اُمُّ جُنْدَبٍ: ظلم و بے انصافی۔ اُمُّ الْجِرَافِ: ذول۔ اُمُّ حَالٍ: اُمُّ جَفَّارٍ: بچو۔ اُمُّ جَعْفَرَانَ: گدھ۔ اُمُّ الْجَيْشِ: جھنڈا۔ اُمُّ حُبَابٍ: ڈنبا۔ اُمُّ حَيْبٍ: گرگت۔ اُمُّ حَرْبٍ: جھنڈا۔ اُمُّ حَفْصَةَ: مرغی۔ اُمُّ حِلْسِ: گدھی۔ اُمُّ الْخَبَائِثِ: شراب۔ اُمُّ خَسَافٍ: تختی۔ اُمُّ خَسُورٍ: بچو۔ اُمُّ ذَرْنٍ: دنیا۔ اُمُّ ذَرِينِ: قط زردہ سر زمین۔ اُمُّ وَرْزَةَ: دنیا۔ اُمُّ دَفْرِ وَ اُمُّ دَفَارٍ: دنیا۔ اُمُّ الدِّمَاغِ: دماغ کی جھلی۔ اُمُّ السَّرَاسِ: دماغ یا دماغ کی جھلی۔ اُمُّ رَاشِدٍ: چوہا۔ اُمُّ الرُّبَيْقِ: تختی و بلا۔ اُمُّ الرُّمُحِ: جھنڈی۔ اُمُّ سَمْحَةَ: کبرا۔ اُمُّ سُؤَيْدٍ: ڈبر۔ اُمُّ صَبَّارٍ وَ اُمُّ صَبُورٍ: بلا و سخت لڑائی۔ اُمُّ الصَّبِيَّانِ: ایک قسم کی تیار جیو بچوں کو لاحق ہوتی ہے اور جس سے بچے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اُمُّ طَبَسِقٍ: تختی و بلا۔ سانپ۔ اُمُّ الطَّرِيقِ: شارع عام۔ اُمُّ الطَّعَامِ: معدہ۔ گیبوں اُمِّ عَسَامِرٍ: بچو۔ اُمِّ عَرِيضٍ: بچو۔ اُمِّ عَزْمٍ: ڈبر۔ اُمِّ فَرْوَةَ: بھینر۔ اُمِّ الْفَرَجِ: ایک قسم کا کھانا جو گوشت چاول شکر سے تیار کرتے ہیں اور بقول بعض ایک قسم کی روٹی جس میں پرند اور کبری کا گوشت بھر کر تنور میں پکاتے ہیں۔ اُمِّ الْقَسْرِي: مٹہ معظّم۔ اُمِّ الْقُرْآنِ: سورة فاتحہ۔ اُمِّ قَسْمِ: تختی۔ جنگ۔ موت۔ بچو۔ مکاری۔ اُمِّ الْقَوْمِ: سردار قوم اُمِّ الْكِنَابِ: لوح محفوظ۔ سورة فاتحہ یا کل قرآن پاک۔ اُمِّ كَلْبٍ: ایک پہاڑی درخت کا نام۔ اُمِّ كَلْبِيَّةٍ: بخار۔ اُمِّ مَازِنِ: چوٹی۔ اُمِّ الْمُضَوِي: بیوی۔ اُمِّ مَلْدَمِ: بخار۔

اُمُّ النُّجُومِ: کہکشاں۔ اُمُّ الْوَالِدِ: مرغی۔ اُمُّ هَيْبِرَةَ: مینڈکی۔ اُمُّ لَكٍ: کلمہ ذم ہے اور کبھی مدح و استحسان کے موقع پر بھی بولتے ہیں۔
 الْاِمَامُ: آگے۔ وَاِمَامِكَ: کلمہ تختہ پر ہے۔ بمعنی بچو۔
 الْاِمَامُ: (مذکر و مؤنث دونوں کے لئے) پیش امام۔ جس کی اقتداء کی جائے۔ پیشوا۔ ڈوری جس سے معمار عمارت کی سیدھ قائم کرتے ہیں۔ نمونہ۔ واضح راستہ۔ سبق جتنا ہر روز لڑکے پڑھیں۔ قرآن۔ خلیفہ۔ امیر لشکر۔ مصلح اور منظم۔
 الْاِمَامَةُ: خلافت و پیشوائی۔
 الْاِمَامَةُ: جماعت۔ لوگوں کا گروہ طریقہ۔ وقت و قد و قامت۔
 الْاِمَامِيُّ: آن پڑھ۔
 اِمَامِيَّةٌ: پڑھنا لکھنا جاننے والے لوگ۔
 اِمَّةٌ: وقت۔
 الْاِمَامِيَّةُ وَالْاِمَامِيَّةُ: ماں ہونا۔ مادریت۔
 الْاِمَامِيَّةُ وَالْمَامُومُ: جس کی گدی پر مارا گیا ہو۔
 الْاِمَامِيَّةُ: لفظ اُمِّ کی تغیر۔ بتھورا۔ جِ اَمَامِيَّةِ الْاِمَامِيَّةُ: پتھر جس سے سر پکلا جائے۔
 اَمَّا: حرف تنبیہ ہے اس کے بعد اکثر قسم آتی ہے جیسے اَمَّا وَاللَّهِ: حرف عرض جیسے "اَمَّا تَنْزِلُ بِنَا"۔
 اَمَّا: حرف شرط و تاکید جیسے "اَمَّا الَّذِينَ اٰمَنُوا فَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ" جو لوگ ایمان لائے وہ اس کے حق ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ حرف تفصیل جیسے "اَمَّا زَيْدٌ فَسَبِّحْ" اس کے جواب میں فاء کا آنا ضروری ہے۔
 اَمَّا: حرف تفصیل ہے جیسے اِنَّا هٰذِيْنَ اِلَى السَّبِيْلِ اَمَّا شَاكِرًا وَاَمَّا كٰفِرًا" ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا اس کے بعد وہ شکر گزار بندہ بنے یا ناشکر بن کر جیئے اور اس کے مواقع استعمال میں سے موضع شک و ابہام و اباحت و تحیر ہے جیسے "جَاءَ اَمَّا زَيْدٌ وَاَمَّا عُسْرٌ"

یعنی یازید آیا یا عمرو۔ جبکہ یہ معلوم نہ ہو کہ ان دونوں میں سے کون آیا اور جیسے تعلیم ایا الفقه و اما اللغة یعنی یافتہ یا لغت یکسو۔ الامیر: بجلی کا سخت کرنٹ۔

الامیر الساعی: ۳۶۰۰ میگا واٹ بجلی کا علم۔ (بیڈ یا ٹرک و گاٹا کا لو جسٹ) افسہ (ش) افسا و افسہ: اندازہ کرنا۔ قصد کرنا۔

الامن: کمزوری۔ بلند جگہ۔ خشک۔ خالی ہونا۔ نشیب و فراز۔ ج امانات و اموت۔ امیح: (س) امیحا: گرم ہونا۔ پیاسا ہونا۔ (ش) امیحا: تیز چلنا۔ صیف امیح: سخت گرمی۔ امیح (ش) امیحا: الجوخ: درو کرنا۔ امید (س) امذا: علیہ غضبناک ہونا۔ امذ: مذت بیان کرنا..... البقاء: ایک قطرہ نہ چھوڑنا۔ الامذ: غایت۔ آخری حد۔ غصہ۔ ج اماناد: کہا جاتا ہے "طال علیہم الامذ" ان کے اوپر مدت طویل ہوگئی۔ الامذ و الامیذ: بھری ہوئی کشتی۔ امرہ (ن) امرا و امیرة و امارا: حکم دینا۔ صفت امیر اور صفت معمولی مسامور: کہا جاتا ہے "امرہ الشی و بالشی و امرہ ان یفعل و بان یفعل" اس نے اس کو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا۔ امیر (س) امرا و امر (ک) امرہ و امارة: امیر و حاکم ہونا..... علیہ: والی ہونا۔ امیر (س) امرا و امرہ الشی: بہت ہونا۔ السرجل: بہت مویشی کا مالک ہونا۔ صفت امر۔ امرہ: امیر و حاکم بنانا۔ امرہ مؤامرة: فی امر: مشورہ کرنا۔ امرہ ایمازا: حکم دینا..... اللذ: مال یا نسل

بڑھانا۔ تاسمر و التسمر و استامرة: مشورہ کرنا۔ تاسمر و علیہ: تسلط ہونا۔ زبردستی کرنا۔ انتصر الامر و یہ: فرماں برداری کرنا۔ التمر و التمر و استامرو: باہم مشورہ کرنا۔ انتصر و بفلان: کسی کے قتل کی سازش کرنا۔ الامر ج اوامر: حکم۔ فرمان۔ ج امور: کام واقعہ۔ چیز جیسے "لامر ما تمان کذا" کسی چیز کی وجہ سے ایسا ہوا۔ "اولوا الامر" اسلامی حکومت کے حکام و علماء۔ الامرۃ: امر کا اسم مرثہ۔ الامرۃ: بیابان میں پتھر کا چھوٹا نشان۔ چھوٹا۔ نیر ج امر۔ الامازة: علامت۔ ج امارات۔ الامر: عجیب۔ خلاف شرع و خلاف عقل سلیم بات۔ الامر و الامرۃ: کمزور رائے والا۔ کہا جاتا ہے "مسالة امر و لامرۃ" یعنی اس کے پاس کچھ نہیں۔ الامار: بہت حکم دینے والا۔ برائی پر اُکسانے والا۔ مؤنث امارۃ۔ التامور: برتن۔ دل۔ بادشاہ کا وزیر۔ التامورۃ: راہب کا صومعہ۔ شیر کا کچھار۔ التامری و التامری و التامری: انسان۔ الامیر: حکم دینے والا۔ والی قوم۔ شریف آدمی۔ اس کلمہ کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے جو شریف الاصل ہو اگرچہ صاحب امر نہ ہو۔ پردیسی۔ وہ شخص جس سے مشورہ کیا جائے۔ امیر البحر: بحری کمانڈر۔ امیر الای: فوج کے ایک دستہ کا افسر یا بحری بیڑے کا کپتان۔ ج امراء۔ النال الامیری: شاہی ٹیکس۔ التوتمر: کانفرنس۔ التوتمر: ج توتمرات: کانفرنس۔ توتمر ذولنی: بیچل کانفرنس۔ توتمر

ثقافی: ادبی کانفرنس۔ توتمر علمی: علمی کانفرنس۔ توتمر سیاسی: سیاسی کانفرنس۔ امیر المؤمنین: حضرت عمر بن الخطاب اور بعد والے خلفاء کا لقب جو ایک صحابی نے حضرت عمر فاروق کے لیے دیگر بادشاہوں کے خطوط لکھتے وقت تحریر کیا۔ التوتمر: قا۔ خود رائے۔ ایام مجوز کا آخری دن۔ التوتمر: مشورہ۔ کہا جاتا ہے "فلان بعیذ من التوتمر قریب من التوتمر" وہ مشورہ سے بعید اور جھٹلی سے قریب ہے۔ التوتمر: مبنی علی الکسر: کل گزشتہ۔ التوتمر: (اعرابی حالت میں) گزشتہ ایام میں سے کوئی دن۔ ج التوتمر و التوتمر و التوتمر: نسبت کے لئے التوتمری: خلاف قیاس۔ التوتمر و التوتمر: وہ گوشت جس کو ہار یک کر کے کچا کھاتے ہیں اور کبھی ذرا آگ دکھلا لیتے ہیں۔ التوتمر (س) التوتمر: کسی کام کا پختہ ارادہ کرنا اور کسی کی ناراضی کو خاطر میں نہ لانا۔ مافی التوتمر کے خلاف بے باکانہ بولنا۔ التوتمر و التوتمر: ہر ایک کی رائے کی بیروی کرنے والا۔ لوگوں کے ساتھ بغیر بلائے ہوئے دعوت میں شریک ہونے والا۔ ج التوتمر اور التوتمر: کی اصل زانیہ معک ہے۔ التوتمر: کی تاسنا: تائیسٹ کی نہیں مبالغہ کے لئے ہے۔ التوتمر و التوتمر: ہر ایک کی رائے کا تابع بننا۔ التوتمر: تاک کی طرف کا آگے کا گوشہ۔ التوتمر: آماق۔ التوتمر (ن) التوتمر و التوتمر: امید کرنا۔ التوتمر و التوتمر: غور کرنا۔ دیر تک سوچنا۔ التوتمر و التوتمر: امید ج اعمال۔ التوتمر: امید۔

الْأَمَلَةُ: وہ لوگ جن کی مدد کی امید رکھی جائے
واحد امل۔

الْأَمِيلُ: جذر (علم کیسیا) C-S-H-B

الْمَامِلُ: امید۔ جس کی امید رکھی جائے۔

الْمَوْعِلُ: گھوڑ دوڑ میں آنٹھوں نمبر کا گھوڑا۔

أَمِنَ (ک) اَمَانَةٌ: امین ہونا۔ امانت دار ہونا۔

معتمد علیہ ہونا۔ صفت امین۔ ج اماناء۔

أَمِنَ (ض) اَمَانًا: اعتماد کرنا۔ بھروسہ کرنا۔ مائل
ہونا۔ صفت آمن۔

أَمِينٌ (س) اَمْنًا وَاْمَانًا وَاْمَانَةً: مطمئن

ہونا۔ صفت آمین و امین و امین۔

..... الْأَسَدُ وَاْمِنًا: محفوظ رہنا۔

أَمِنَ: آمین کہنا۔ ة: آمین واطمینان

میں کرنا۔

أَمِنَ وَاْتَمَنَ: فَلَانَا عَلَيَّ كَذَا: کسی کو کسی چیز

کا امین بنانا۔ اِتَمَنَ: امین سمجھنا۔

أَمِنَهُ اِيْمَانًا: امن دینا۔ بہ: تصدیق

کرنا۔ اعتماد و بھروسہ کرنا۔ لہ: تابع دار و

مطمئن ہونا۔

اِسْتَأْمَنَهُ: امن طلب کرنا۔ امین سمجھنا.....

علیٰ کذا: امین بنانا۔

الْأَمْنَةُ: اطمینان۔ دل کا سکون۔ امانت۔ ہر

ایک پر بھروسہ کرنے والا۔

الْأَمْنَةُ: معتمد علیہ۔

الْأُمِّيَّةُ: آرزو آمانی و امان۔

الْأَمَانَةُ: امانت۔ وودیت۔ ج امانات۔

فریضہ خداوندی۔

الْإِيْمَانُ: مان لینا۔ تصدیق کرنا۔

الْأَمُونُ: سواری جس کے ٹھوکے کھانے کا خوف

نہ ہو۔ ج اُمن۔

الْأَمِيْنُ: امانت دار۔ وہ شخص جس کے پاس

امانت رکھی جائے۔ ج اماناء۔

الْبَلَدُ الْأَمِيْنُ: ملکہ معظّمہ۔

الْأَمْسَانُ: امانت دار۔ معتمد علیہ۔ کا شکر۔ وہ

شخص جو لکھتا جانتا ہو۔

أَمِيْنٌ وَاْمِيْنٌ: اسم فعل بمعنی قبول کر۔

السُّؤْمِنُ: مان لینے والا۔ تصدیق کرنے والا

نیز اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ہے۔

الْمَامُونُ: معتمد علیہ۔

الْمَامِنُ: امن و بے خوفی کی جگہ۔

أَمَةٌ (س) أَمَهَا وَاْمَهَا. الشَّيْءُ: بھولنا۔

أَمَةٌ (ن) أَمَهَا. إِلَيْهِ فِي الْأَخِرِ: عہد و پیمان

کرنا۔

تَأَمَّنَ: الْمَرْأَةُ: مان بنانا۔

الْأَمِيَّةُ: بکری کی چپک یا پھنسیاں جو بکری کو

ہوتی ہیں۔

أَمَا (ن) کو اَمِي (س) وَاْمِي (ض): اَمُوَةٌ.

أَمَتُ الْجَارِيَةِ: باندی ہونا۔

أَمَتٌ (ن) اَمُوَةٌ: السِّنُوْرُ: میاؤں

میاؤں کرنا۔

أَمِي الْجَارِيَةِ: باندی بنانا۔

تَأَمَّى وَاِسْتَأْمَى: التجارية: باندی بنانا۔

الْأَمَةُ: ارندی۔ انڈی۔ ج اسماء و اموات و

آم: نسبت کے لئے اُمُوِي تصغیر اُمِيَّة.

أُمِيَّة: قریش کا ایک قبیلہ۔ نسبت کے لئے

أُمُوِي اور بسا اوقات اُمُوِي بھی کہتے ہیں۔

أَن: (ا) حرف مصدری ہے فعل مضارع کو

نصب دیتا ہے جیسے "أَنْ تَصُوْمُوا خَيْرٌ

لَكُمْ" یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لئے بہتر

ہے۔

(۲) مخفف ہے اَنْ مشقلہ: سے اور افعال

یقین یا ان کے مشابہ کے بعد آتا ہے جیسے "

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَوْضِي": اللہ نے

جان لیا کہ تم میں سے بیمار ہوں گے۔

"حَسِبُوا أَنْ لَا تَكُونُونَ فِئْتَةً": لوگوں نے

گمان کر لیا کہ آزمائش نہیں ہوگی۔

(۳) مفسرہ بمعنی اُحیٰ جیسے "فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ

اصْنَعْ الْفُلْكَ": پس وحی بھیجی ہم نے طرف

اس کی یہ کہ بنا کشتی کو۔

(۴) زائدہ تاکید کے لئے جیسے "لَمَّا أَنْ

جَاءَ الْبَيْشِيُّ": جب آیا خوشخبری لانے والا۔

إِنْ حرف شرط ہے دو فعلوں کو جزم دیتا ہے

جیسے "إِنْ تَضْرِبْ تَضْرِبْ" اگر تو مارے گا

مارا جائے گا۔

حرف نفی ہے۔ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے

اور بعضوں کے نزدیک نِسْ: کا عمل کرتا ہے

جیسے "إِنْ أَحَدٌ خَيْرٌ أَمِنْ أَحَدٍ الْأَ"

بِالْعَاقِبَةِ": یعنی عاقبت کے بغیر کوئی کسی سے

بہتر نہیں۔

اور بھی جملہ فعلیہ پر داخل ہوتا ہے جیسے "إِنْ

أَخْرَجِي أَقْرَبَ أُمَّ بَعْدَ مَا تَوَاعَدُونَ" میں

نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا

ہے وہ قریب ہے یا بعید۔

مخفف ہے اَنْ مشقلہ سے اور اس صورت میں

زائدہ ہوتا ہے جیسے "مَا إِنْ زَيْدًا قَائِمٌ"

إِنْ: حرف تاکید ہے اسم کو نصب اور خبر کو رفع

دیتا ہے جیسے "إِنْ زَيْدًا قَائِمٌ"

حرف جواب ہے جیسے کوئی کہے "لَعْنُ اللَّهِ

لَعْنَةُ حَمَلَتِي الْبِكْ": یعنی اللہ اس اونٹنی پر

لعنت کرے جو مجھ کو تیرے پاس لائی ہے۔

اس کے جواب میں کہا جائے "إِنْ

وَزَيْدًا كَيْفَا": یعنی ہاں اور اس کے سوار پر بھی۔

اَنْ حرف تاکید ہے جو خبر کو رفع اور اسم کو نصب

دیتا ہے اور جملہ کو تاویل مفرد کر دیتا ہے جیسے

بَلَعْنِي أَنْ زَيْدًا قَائِمٌ" مجھ کو زید کے قیام کی

خبر پہنچی۔

أَنْ (ض) اَيْنًا وَاْنَا وَاْنَا: اِنَابًا: کراہنا۔

آہ آہ کرنا۔

أَنَّهُ وَاْنَا: ممانا۔

الْأَنَانُ وَاْنَا: اَلْأَنَانُ: بہت کراہنے والا۔

الْأَنَانُ وَاْنَا: اَلْأَنَانُ: کراہنا (حاصل مصدر)

أَنَا: میں (واحد متکلم کی ضمیر مرفوع منفصل)

الْأَنَانُ: اِنابا کہنا۔

الْأَنَانِيَّةُ: ذُيْغٌ خَوْضِيٌّ: اِدْعَا

أَنِيَّةً: جھڑکنا۔ ملامت کرنا۔

أَنَانِيٌّ: ایک مشہور لذیذ خوشبودار پھل کا نام

ہے اکثر ممالک خط استوا کی میں پویا جاتا ہے

اور اس کا شربت اور پھل دونوں ہی بے حد

لذیذ ہوتے ہیں۔ انگریزی زبان میں "پائسن

اپپل" کے نام سے معروف ہے۔

العین: آنکھ کی پٹلی ج انسانی و انسانیہ و
آناس: پہاڑ کا سایہ۔

الأنسانیة: انسان کی خصوصیات۔ اکثر اس کا
استعمال اخلاق محمودہ کے لئے ہوتا ہے۔

الأنسوس: بہت اُس کرنے والا۔ جن
الکلاب: نکالنے والا کتا۔ ج اُنس۔

الانیس: اُس کرنے والا۔ وہ شخص جس سے
اُس حاصل ہو کہا جاتا ہے "مساب الذار من
انیس" یعنی گھر میں کوئی نہیں

.....الانیس: ایک آبی پرندہ جس کی
آواز گائے کی آواز سے مشابہ ہے۔ مرغ

الانیسۃ والمائونۃ: آگ۔
المونس: اُس دینے والا۔ بیخ شنبہ کے دن کا

نام۔ ابو مونس: شیخ۔
المونسات: ہتھیار۔

آنسولیس: شوگر کی بیماری کی دوا۔ جو تمام
دوائیں آزمانے کے بعد آخری حربے کے

طور پر دی جاتی ہے۔
الانیسون: النیسون: (ایک دوا کا نام)

انص: (ض) ایضاً۔ اللخم: خراب ہونا۔
بگڑ جانا۔

انص: (ض) ایضاً: خوف کی وجہ سے
آنتوں کا حرکت کرنا۔

انص ایضاً۔ اللخم: نیم بریاں کرنا۔
انف: (س) انفاً: من الغار: خود دار ہونا۔

نا پسند کرنا۔ صفت (انوف) اور اسم (الانفة)
..... البعیر: ناک میں درد ہونا۔ صفت

(انف)
انفہ: (ن ض) انفاً: ناک پر مارنا۔

انصاف و انصاف: الشیء: از سر نو کرنا اور
اسی سے ہے "انصاف المدعوئی" یعنی اس

نے اجیل کی۔
الانف: ناک۔ انف السجل: پہاڑ کا ٹکڑا ہوا

گوشہ۔ "انف محل شیء: ہر چیز کی ابتدا۔"
کہا جاتا ہے "مات حنن انفہ" دوائی طبی

موت مرا۔
رغم انفہ: وہ ذلیل ہوا۔ جسمی انفہ: وہ

لڑکے جتنے کی ہو۔

الاناث: چھوٹے چھوٹے ستارے۔
الانجر: جہاز کا لنگر۔

الانجیل: وہ آسمانی کتاب جو عیسیٰ علیہ السلام
پر نازل ہوئی تھی۔ ج انساجیل: (کلمہ یونانی

ہے جس کے معنی بشارت کے ہیں)
انح (ض) انحا و انیحا و انوحا کا ٹکڑا۔

الانح و الانح و الانوح: سوال کرنے پر بغل
کی وجہ سے کھٹنے والا۔

الانحة: پست قد عورت۔
انس: (س) و انس: (ک) انسا و انسۃ

و انس: (ض) انسا: مانوس ہونا۔ بہ و
الیہ: محبت کرنا۔ سکون قلب پانا۔

انسہ: مانوس کرنا۔ انس الشیء: دیکھنا اور
جاننا۔

انسۃ یوانسۃ هو انسۃ: لطف و مہربانی کرنا۔
محبت کرنا۔ تسلی دینا۔

انسۃ یوانسۃ انسا: مانوس کرنا۔ انس
الصوت: سنتا..... الشیء: دیکھنا اور اسی سے

ہے "انس من جانب الطور نازا" موسیٰ
علیہ السلام نے طور کی جانب آگ کو دیکھا۔

تانس: انسان ہونا۔ مانوس ہونا المسح: دور
سے شکار کی آہٹ معلوم کر لینا۔ بہ: مانوس

ہونا۔
انسانس: وحشت کا دور ہونا۔ بہ و

الیہ: مانوس ہونا۔ لہ: کان لگانا۔ دیکھنا۔
الانس: وہ شخص جس سے تم اُس حاصل کرو۔

بڑی جماعت ج انس
الانس: آدمی۔ واحد (انس و انسی) ج

انس و انسانی۔ انسک و ابن انسک
و ابن انسک: تمہارا دوست اور حلیف۔

الانس و الانسہ: انسیت۔
الانسة: پاکیزہ طبیعت والی لڑکی۔ ج اوانس

الانسان: آدمی۔ جنس بشری کے افراد پر اس
کا اطلاق ہوتا ہے اور مولدین کے اشعار میں

انسانہ: بھی آیا ہے غیر مزرعہ زمین۔ انسان

الانسج: آم کا درخت جس کے پھول کو ماخیا
یعنی آم بولا جاتا ہے۔ اس کا پھل سخت کھٹکی

والا اور مزیدار ہوتا ہے۔
الانب: بگین۔

المؤتیب: وہ شخص جس کو کھانے کی خواہش نہ
ہو۔

الاناب: مشک یا ایک قسم کا عطر۔
الانبیق: عرق کشید کرنے والا آلہ۔ ج انابیق:

(جدید)
انث و انت: تو (واحد حاضر مذکر مؤنث کی

ضمیر مرفوع متصل) ج انثم و انث.
الانثرو یولولوجیا: وہ علم (آرکیولوجی) جس

میں انسانی طبائع اس کی معیشت فنون
اور اور ایجادات پر بحث ہو۔

الانیموان: سفید شفاف جو ہر جو طبع شدہ
حروف پر لگایا جاتا ہے جس کی رمز S.B

ہے۔
انث (ض) انثا: المریض: بیمار کا کرہنا۔

آہ آہ کرنا..... فلانسا: حسد کرنا.....
الشیء: اندازہ کرنا۔

انث (ک) انسا: الحدید: لوہے کا کچا
ہونا۔ نرم ہونا۔ محنت ہونا۔ صفت (انیث)

مکان انیث: جس زمین میں گھاس وغیرہ
جلدی آگے۔ سیف انیث: کندہ توار۔

انثہ: مؤنث بنانا۔ مؤنث کھجنا۔ محنت بنانا۔
انث لہ: نرم ہونا۔ نرمی برتنا۔

انثت ایسانا. الموراۃ: مادہ۔ چننا۔ صفت
(مؤنث)

تانت: مادہ ہونا..... لہ: نرم ہونا۔ ڈھیلا
ہونا۔

الانثی: مادہ..... ج اناث و انائی و ج انث.
المؤنث: مادہ۔ بیخرا۔

المیثنات: وہ عورت جس کی عادت لڑکیوں
جتنے کی ہو۔ مرد کے لئے بھی اس کا اطلاق

ہوتا ہے اس لئے کہ مفعال کا وزن دونوں
کے لئے یکساں ہے اور اس کے مقابلے میں

ہذا کفار ہے..... یعنی وہ عورت جس کی عادت

غالب وزیر دست ہوا۔ ج آناف و انوف و آنف۔

آینفا: ابھی کہا جاتا ہے "ذکرته آینفا" میں نے اس کو ابھی یاد کیا۔ یہ ہمیشہ بر بنائے ظرفیت منصوب ہوتا ہے۔

آینفۃ الشباب: آغا ز جوانی کہا جاتا ہے "مقتض آینفۃ الشباب" جوانی کی مستی ختم ہو گئی۔

الأنف: من الریاض: وہ سرسبز و شاداب حصہ زمین جس کو کسی جانور نے چرا نہ ہو۔ کائنات

أنف: وہ پیالہ جس سے کسی نے پیا نہ ہو۔ الاینف: نرم لوہا۔ تمام زمینوں سے پہلے پیداوار اگانے والا پہاڑ۔

أنف الغنجل: زریب وزینت کا ایک پودا اس کے پھول بعض جانوروں کے سر کے مانند ہوتے ہیں اس کے متعدد رنگ ہیں۔ زجل أنفی: بڑی ناک والا مرد۔

المستأنف: من الأمر: وہ کام جس کو ابھی کسی نے نہ کیا ہو۔

أنیق (س) أنقا: خوش ہونا۔ الشئی: پسند کرنا۔ بہ: پسند کرنا اور ماسوا پر ترجیح دینا۔ الشئی: خوبصورت و تعجب انگیز ہونا۔ صفت

أبنق و أبیق و مؤنق: کہا جاتا ہے "روضۃ أبیق و أبیقۃ" خوبصورت باغ۔

أنقۃ: تعجب میں ڈالنا۔ أنقۃ إنفاقا و یبقا: تعجب میں ڈالنا۔ یبقا: مصدر خلاف قیاس ہے۔

تأنق: نفاست پسند ہونا۔ فی الکلام او العمل: اچھی طرح کرنا۔ المكان: پسند آنے کی وجہ سے جدا نہ ہونا۔

الأناقۃ و الإناقۃ: حسن پسندیدہ۔ الأنوق: عتاب۔ "هو أعز من بنیض الأنوق" وہ عتاب کے اندے سے زیادہ

کیا ہے۔ بطور مثل کے اس چیز کے لئے بولتے ہیں جس کا حصول محال ہو۔ آنک: (ن) انکا: الشئی: بڑا اور موٹا ہونا۔

الآنک: سیر۔ ایک گلے کو انکۃ: کہتے ہیں۔

الآنکیس: نارمانی۔ الأنام و الأنام و الاینم: مخلوق۔ انیم کا استعمال صرف اشعار میں ہوتا ہے۔

انی: (ش) انیا و انی و آناء و انی ثانیۃ: قریب ہونا۔ آنا..... النبات: پک جانا۔ انی یانی و انی: (س) انیا و انی: دیر کرنا۔

چیچے رہنا۔ صفت انی۔ انی ایناء: فلانا: دیر کرنا چیچے ڈالنا۔ تانی و استانی: فی الأمر و بہ: اچھی طرح غور و فکر کرنا۔ الرجل: مہلت دینا۔

الأناء: وقار۔ بردباری۔ انتظار و مہلت۔ الأنساء و الانی و الانی: وقت کا آپہنچنا۔

الأنسی: بردباری۔ نرمی۔ پورا دن یا اس کا ایک جزو۔ ج آناء و انی: کہا جاتا ہے "آناء اللیل و أطراف النهار" یعنی رات اور دن۔

زجل آن: بڑبڑا اور بچیدہ مرد۔ الأناء: برتن۔ ج آنیۃ و: ج آوان انسی: (۱) ظرف مکان ہے اور دوفعلوں کو

مجزوم کرتا ہے جیسے "انسی تجلس اجلس" جہاں تو بیٹھے گا میں بیٹھوں گا۔

(۲) بمعنی کہاں سے جیسے "انسی لک هذا" یعنی تمہیں یہ کہاں سے حاصل ہوا؟

(۳) ظرف زمان بمعنی کب جیسے "انسی جنت" تم کب آئے؟

(۴) استنبہا میہ بمعنی کیف جیسے "انسی یسخری هذه اللہ بعد موتہا" اللہ اس بستی کو کیونکر زندہ کرے گا اور اسی سے ہے "فانوا حورکم انی شتم"۔

انوفیلنس (بعوضۃ الاجمیع): لہیر یا بخار پھیلانے والا پتھر۔

آہ و آہ و آہ و آہ و آہ و آہ و آہ۔ آہ (ن) آہا و آہۃ و آہۃ و آہۃ و آہۃ: آہ آہ کرنا۔

أهَب و تَاهَب: لئلامر: تیار و آمادہ ہونا۔ الأهبة: سامان۔ کہا جاتا ہے "أخذ للسفیر أهبة" اس نے سامان سفر لیا۔

الآهَاب: کھال۔ کچی کھال۔ ج آهَب و آهَب و آهبة۔ الأهرة: گمریلو سامان۔ اچھی حالت۔ بیت: ج آهر و آهرات۔

أهبل: (ن ش) أهلا و أهولا: الرَجُل: شادی شدہ ہونا۔ امرأۃ: نکاح کرنا۔ صفت مقبولی (ماہولۃ)۔

أهل (س) أهلا: بہ: انس حاصل کرنا۔ أهل: المکان او البلد: آباد ہونا۔ صفت

أهل و ماہول۔ آهله اینہالا: شادی کر دینا (.....) و آهله لئلامر: لائق بنانا یا بھنا۔ اهل بہ: کسی سے آهلا و سہلا: کہنا۔

تأهل و إتهل: شادی شدہ ہونا۔ تأهل لئلامر: لائق ہونا۔

استأهل الشئی: کسی چیز کا اہل ہونا۔ السرجل: لائق سمجھنا۔ استأهل: پگھلی ہوئی چربی لینا یا کھانا۔

أهلا و سہلا: خوش آمدید۔ تقدیر مہارت کی یوں ہے "صادفت أهلا لا غریبۃ و وطنت سہلا لا و غرا" تو نے اپنے لوگوں کو پایا اجنبیوں کو نہیں اور نرم زمین میں آیا سخت میں نہیں۔"

الآهل: کنبہ۔ رشتہ دار۔ ج أهلون و اهل و آهل و اهلات و آهلات: اهل الرجل: بیوی۔ اهل الأمر: حکام۔ اهل المذنب: قبیحین مذہب۔ اهل التوسر: بدو۔ اهل السدر و الحضر: عرب کے شہری۔

الآهلیۃ: قابلیت۔ الأهل و الآهلی: پالتو جانور وغیرہ۔

الآهل: بال بچوں والا۔ السؤہلات: طبی استعداد جو آدمی کو کسی کام کے قابل بنا دیتی ہے۔

الآهالۃ: پگھلی ہوئی چربی۔ ہر وہ روغن جس کو

بطور سالن کے استعمال کیا جائے۔

المأهول: آباد مکان۔

أز: حرف عطف میں سے ہے اور اس کے مواقع استعمال حسب ذیل ہیں۔

(۱) شک جیسے "لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ" ہم ایک دن یا دن کے کچھ حصہ میں ٹھہرے۔"

(۲) ابہام جیسے "نَحْنُ أَوْ أَنْتُمْ عَلِيُّ الْحَقِّ" ہم یا تم حق پر ہیں۔

(۳) اباحت جیسے "جَالِسِ الْخَسَنِ أَوْ الْبَسِئِ" حسن کے پاس بیٹھو یا ابن سیرین کے پاس۔

(۴) تخیر جیسے "بَسْرًا كَبَا أَوْ مَا شِئْنَا" سوار چلو یا پیدل چلو۔

(۵) تسمیہ جیسے الْكَلِمَةُ اسْمٌ أَوْ فِعْلٌ أَوْ حَرْفٌ (کلمہ یا اسم ہے یا فعل یا حرف) بھی اہلی کے معنی میں آتا ہے جیسے "لَا لَزْمَ لَكَ" اَوْ تَفِينِي حَقِّي" میں تمہارے ساتھ لازم رہوں گا یہاں تک کہ تم میرا حق پورا کرو اور کبھی الّا کے معنی میں آتا ہے جیسے "لَا فَتْلِي الْعَدُوُّ أَوْ يَخْضَعُ" میں دشمن کو یقیناً قتل کروں گا مگر یہ کہ وہ تابع ہو جائے۔

آب (ن) اَوْبًا وَ مَاءًا مِنَ السَّفَرِ: لوٹنا واپس ہونا۔ صفت (آب) ج اَوْبٌ وَ اِيَابٌ وَ اَوَابٌ السماء: رات میں کسی چشمہ پر اترنا الشَّمْسُ: آفتاب کا غائب ہونا۔

غروب ہونا اِلَى اللّٰهِ: توبہ کرنا۔

آبَةُ (ن) اَوْبًا: قصد کرنا۔ آبٌ اِلَيْهِ: کسی کے پاس رات کے وقت جانا۔

اَوْبٌ (س) اَوْبًا: غضبناک ہونا۔

اَوْبٌ وَ اِيَابٌ: عُنَّةٌ: لوٹنا۔ اَوْبٌ الْاَوْيَمِ: بیچ میں سے گول کاٹنا۔

اَوْبٌ وَ اَوْبٌ مُؤَاوَبَةٌ: الْقَوْمُ: سارے دن چلنا اور رات میں قیام کرنا۔

تَأْوَبٌ وَ تَائِبٌ وَ اِنْتَابٌ: لوٹنا السماء: رات میں کسی چشمہ پر اترنا۔

الْاَوْبُ وَ الْاَوْبَةُ الْاِنْسَابُ: واپسی و اَلْاَوْبُ: قصد۔ عادت۔ راستہ۔ جہت۔ کہا جاتا ہے

"جَاءَ وَ اِمِنْ كُلِّ اَوْبٍ" وہ لوگ ہر جہت سے آئے۔ "وَ كُنْتُ عَلَي صَوْبِ فُلَانٍ" و اَوْيَه" میں فلاں کی روش اور طریقے پر تھا۔

الْاَوْبَةُ: جانور کی ٹانگ۔ ج اَوْبَاتٌ۔

الْاَوْابُ: توبہ کرنے والا۔ ج اَوْابُونَ۔

الْمَتَابُ: لوٹنے کی جگہ۔ ج مَتَابٌ: کہا جاتا ہے "يَتَيْنَهُمَا ثَلَاثَةُ مَتَابٍ" ان دونوں کے درمیان تین منزل کا فاصلہ ہے۔

اَوْتُوْبَانِكْسُ: ایک پودا جس کے زرد پھول ہوتے ہیں اس سے گوند نکال کر بعض سبز انگوریوں میں ملا کر دوئی دی جاتی ہے۔

اَتْوَيْسُ: بڑی گاڑی سواروں کو منتقل کرنے کے لئے چلائی جاتی ہے۔ اس کو سوزوکی یا بوسٹریا بس بولتے ہیں۔

اَوْسُوْشُفْرَادُ: خصوصی شارع خاص گاڑیوں کے لئے جو ہر قسم کی اچھی ڈیزائننگ سے مزین ہوتی ہے اس کے دونوں اطراف درخت اور فٹ پات بنائے جاتے ہیں۔ (لاطینی)

اَلْاَوْسُوْفِرَاطِي: مطلق العنان حاکم۔ (یونانی لفظ)

اَوْسُوْمَاتِيكُ: ہر مشین جو خود چل کر بند ہو یا کم ہو بغیر کسی کے چلائے۔ (آٹومیٹک)

الْاَوْيَةُ: وہ پانی جس کو دو پہر کے وقت پیتیں۔

الْاَوْجُ: بلندی۔ فن موسیقی کا ایک سُر۔

الْاَوَّاحُ: ائدے کی سفیدی۔

اَوْدَةٌ: (ن) اَوْدًا وَ اَوْوَدًا. الْاَنْسَرُ: گرانبار کرنا۔ تھکا دینا الْحَمْلُ: بوجھل کرنا۔

صفت (اُود) اور صفت مفعولی (مُؤود)۔

(اَوْدًا) الْاَوْيَةُ: لوٹنا۔ الْعَشِيُّ: مائل ہونا۔

(..... اَوْدًا وَ اَوْدًا الْعَوْدُ: جھکانا۔ مِزْهَا کرنا۔

اَوْدَةٌ: (س) اَوْدًا وَ تَأْوَدُ: مِزْهَا ہونا۔ مِزْنَا۔

صفت (اَوْد) مَوْنَتْ (اَوْدَاء) وَ تَأْوَدَةُ الْاَمْرُ: شاق گزرنے والا ہونا۔

اِنَادِ اِنْبِيَاذَا: مِزْنَا۔ جھکانا۔ مِزْهَا ہونا۔

اَلْاَوْدُ: مشقت۔ مِزْهَا پن۔

الْاَوْدَةُ: بوجھ۔

الْمَتَاوِدُ: مہیبیتیں۔

الْاَوَارُ: گرمی۔ پیاس۔ دھواں۔ ج اَوْرٌ۔

الْاَوْرَةُ: چولہا۔ آگ جلانے کی جگہ۔

الْاَوْرَانِيْسُوْمُ: شعاع والا جسم جو ایک بم میں داخل کیا جاتا ہے۔

الْاَوْرِيْسُوْبِيْسُنُ: جدید قسم کی دوائی جو کہ پیش جیسے امراض میں استعمال ہوتی ہے۔

الْاَوْرَةُ: بظ: مرغابی۔ ج اَوْرٌ۔

الْمَاوْرَةُ: وہ جگہ جہاں بظین زیادہ ہوں۔

اَسْ يُوْسُوْ اَوْسَا وَ اِنْسَا: دینا۔ بدلہ دینا۔

اِنْسَاْسَه: عطیہ مانگنا۔ مدد طلب کرنا۔ ساتھ رہنے کو کہنا۔

الْاَوْسُ: عطیہ۔ بھیریا۔

الْاَسُ: ایک درخت کا نام ہے جو ریحان کے نام سے مشہور ہے۔ واحد آسہ ہے۔

الْاَسُ: چولہے کی بقیہ راکھ۔ شہد۔ چھتہ میں باقی ماندہ شہد۔ قبر۔

الْاَوْسِيْمِيُوْمُ: سفید کان سخت سب اجسام میں زیادہ نقل جسم بیضی جس کا رمز O.S ہے۔

اَوْيْسُ: بھیریا۔

اَفَهُ (ن) اَوْفًا: نقصان پہنچانا۔ فاسد کرنا۔

اَفَتْ اَوْفًا وَ اَفَهُ اَوْوَفًا الْبِلَادُ: آفت زدہ ہونا۔

الْاَفَةُ: آفت۔ مصیبت۔ ہر وہ عارضہ جو کسی چیز کو فاسد کر دے۔ ج اَفَاتٌ۔

اَفَى (ن) اَوْفًا: عَلَيْهِ: اوپر سے جھانکنا۔ جھکنا۔ بتلائے مصیبت کرنا۔ نحوست لانا۔

اَوْفَى: کسی پر مشقت ڈالنا۔ کھانا کم کرنا۔

تَأْوَقُ: زکنا۔

الْاَوْقُ: بوجھ۔ نحوست۔ بد بختی۔ کہا جاتا ہے "اَلْقَسَى عَلَيَّ اَوْقَةٌ" اس نے اپنا بوجھ مجھ پر ڈال دیا۔ "وَ يَهْ اَوْقٌ" وہ منحوس ہے۔

الْاَوْقَةُ: جماعت۔ اس سے ہے "جَاءَ الْقَوْمُ بِاَوْقِيْهِمْ" قوم پوری کی پوری آئی۔

الْاَوْقَةُ: گڑھا جس میں پانی جمع ہو جائے ج اَوْقَاتٌ وَ اَوْقٌ۔

الأَوْقِيه: نصف رطل کا چھٹا حصہ۔ ج اواق و اواقی۔ الأواقی: ڈھرکی۔

المووق: منحوس۔ الموقوق: کھانے میں دیر کرنے والا۔

الأَوْقِيَانُوس: بحر الملائک۔ بحر محیط۔

أوكاليسنوس: جس کو لغت میں کینا بھی بولتے ہیں۔ معنی: کونین۔ بہت تیزی سے پھیلتا ہے اس کی لمبائی سو میٹر تک چلی جاتی ہے۔ زمین کو خشک کرنے میں فائدہ مند ہے۔ (سفیدہ کا درخت)

الأَوْكَةُ: غصہ۔ ہدی۔

الأَوْكِسْبِيْن: آکسین۔

الآل: سراب۔ یا وہ سرانی کیفیت جو چمچلاتی دھوپ میں زوال سے پہلے محسوس ہوتی ہے۔

آل السرجل: اہل وعیال۔ اس کا استعمال صرف اشراف ہی میں ہوتا ہے خواہ شرافت دینی ہو یا دنیوی جیسے "آل النسبی و آل فرعون" اور آل الحجام و آل الإنسکاف نہیں کہا جاتا۔

آل العجیل: پہاڑ کے اطراف۔

الآلة: اوزار۔ ج آل وآلات۔ الآلة الحدباء: تابوت۔ الآلة الخياطة: سینے کی مشین۔ الآلة الكتابية: ٹائپ رائٹر۔ الآلة: حالت شدت۔ چوب خیمہ۔

الآلاتی: سازندہ۔ اوزار کے کارخانہ کا منتظم۔

الأول: پہلا۔ ج أوائل و أوال و أولون: مؤنث اولی: ج أوول و اولیات۔ اول: جب صفت واقع ہوتا ہے تو غیر منصرف ہوتا ہے جیسے "لقیئة عامما أول" اور اس کے ماسوا صورتوں میں منصرف ہوتا ہے۔ جیسے ما رأيت له أولاً ولا آخراً: اور کہا جاتا ہے: لقيئة أول ذي يدين" یعنی صبح کو سب سے پہلے میں اس سے ملا اور بولتے ہیں "أغسل كذا أول ذي يدين" یعنی یہ کام میں سب سے پہلے کروں گا۔

آل (ن) "أولاً و مثلاً۔ إليه: لونا۔

(.....) يسالاً و اولاً الرعية: انتظام کرنا۔ (.....) أولاً و ايالاً و ايالاً على القوم: حاکم ہونا۔

أولئ: إليه: واپس کرنا (.....) وتساؤل) الكلام: تفسیر کرنا۔ وتساؤل فيه الخبير: خبر و صلاح محسوس کرنا۔

انتال: المال: انتظام کرنا۔

السماأل: لوتنے کی جگہ۔ نتیجہ۔ سماأل الكلام: مفاد۔

الأينالة: حکومت۔ سیاست۔ صوبہ۔ ج ایالات۔

أولاء و أولسى: جمع قریب کے لئے اسم اشارہ ہیں مذکر مؤنث دونوں کے لئے اور اولاء پر ہاشمیہ میں داخل ہوتا ہے اور ہولاء کہا جاتا ہے اور آخر میں ک خطاب بھی لاحق ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے أولئک اور اولاء و أولی الذین: کے معنی میں بھی مستعمل ہیں۔ أولو: ذوق جمع۔ مؤنث اولات: اس کی واحد ذات ہے۔ تم کہتے ہو جانا فی أولو العلم و أولات الفضل۔

آم (ن) أوام: سخت پیاسا ہونا۔ (آم) (ک) أوما و أیما و ایما (النحل و علیہا: شہد نکالنے کے لئے چھتے کے نیچے دھواں کرنا۔

أومة: پیاسا کرنا۔

الأوام: پیاس۔ دوران (سر) (.....) والایام) دھواں۔ ج أویم۔

آن: (ن) أونا۔ علی نفسہ: نرمی برتنا۔

أون: (ن) و تاوون۔ الروجل: بشیدہ وہ دقار ہونا۔

الأون: نرمی۔ آرام۔ سکون۔ دقار کے ساتھ چلنا۔

الآن و الأوان: وقت۔ ج أونة۔

الآن: ابھی۔

الایوان: محل۔ ج ایوانات و أوایین۔

الأوان: بگھوے (اس کے لئے واحد نہیں)

آه (ن) أوها و أوہ و تاوؤة: درد مند ہونا۔

آه آه کرنا۔

الأوہ: بہت آہیں کرنے والا۔

الآه: آہ۔ گراہ۔ کھسرہ۔

أوی: (ض) أویسا و إواء۔ البیت و البی و البیت: ٹھکانا لینا۔ پناہ دینا۔ اترنا۔ (و أوی و أوی) ة البیت و إلى البیت: ٹھکانا دینا۔ پناہ دینا۔ اترنا۔

أوی (ض) أویة و إیة و صاویة و صاوة۔

له: رحم کھانا۔ نرم دل ہونا۔ ترس کھانا۔

تاوی و تاوی: الطیور: اکٹھا ہونا۔

اتوی و اتوی: پناہ لینا۔ لہ: ترس کھانا۔

الصاوی و الصاوة: ٹھکانا۔ جائے پناہ۔

ابن أوی: گیدڑ۔ بعض اس کی کنیت ابو زھرہ کہتے ہیں۔ ج بنات أوی۔

الآیة: علامت۔ ج من الكتاب: آیت الایة: عبرت۔ آئی و آیات۔

آیة السرجل: وجود۔ کہا جاتا ہے "خرج القوم بائبهم" قوم پوری جماعت کے ساتھ نکل۔

آی: حرف نداء ہے جیسے "آی زید" حرف تفسیر جیسے "رأيت غضنقراً آئی أسدا"

إی: ہاں۔ ہمیشہ قسم سے پہلے واقع ہوتا ہے جیسے "إی واللہ۔

آئی: اس کے مختلف مواقع استعمال ہیں۔


(۱) شرط کے لئے اس صورت میں دو فعلوں کو مجزوم کرتا ہے۔ جیسے "أیما تضرب أضرب" جس کو تو مارے گا میں ماروں گا۔

(۲) استفہام کے لئے جیسے "أیکم آئی تم میں سے کون آیا؟

(۳) اسم موصول جیسے "سلبم علی آیہم أفضل" ان میں سے جو افضل ہے اس کو سلام کر۔

(۴) مال کے معنی پر دلالت کرنے کے لئے اس صورت میں نکرہ کی صفت واقع ہوتا ہے۔ جیسے "زید زجل آئی زجل" زید بہت کامل آدمی ہے اور بھی موصوف باللام منادی پر یا کے بعد مخاطب کو متنبہ کرنے کے

<p>(مَائِمَةٌ) حَيْثَمَةُ: لڑائی عورتوں کو راند کرنے والی اور بچوں کو پتیم بنانے والی ہے۔</p> <p>آن يَمِينُ أَيْمَانًا: وقت آتا۔ کہا جاتا ہے آن لَكَ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا“ تمہارے لئے ایسا کرنے کا وقت آ گیا۔</p> <p>الْأَيْمَنُ: جھٹکن۔ ماندگی</p> <p>الآن و الْأَوَانُ: مادہ اون دیکھو۔</p> <p>أَيَّانُ: اسم شرط ہے۔ دو فعلوں کو جزم دیتا ہے جیسے ”أَيَّانُ تَصْرُبُ أَصْرُبُ“ جب تم مارو گے میں ماروں گا۔ اسم استفہام جیسے ”أَيَّانُ تَرْجِعُ“ تو واپس ہوگا؟ اور معنی: کے معنی میں بھی آتا ہے بمعنی کب۔</p> <p>أَيْنُ: اسم ظرف ہے بمعنی کہاں..... جیسے ’أَيْنُ يُسْوَسُفُ“ یوسف کہاں ہے؟ اور معنی شرط کو معترضین ہو کر دو فعلوں کو جزم دیتا ہے خواہصا: اس کے ساتھ لاحق ہو یا نہ ہو جیسے أَيْسُنْ أَوْ أَيْسَمَا تَقِفُ أَقْفُ“ تو جہاں کھڑا ہوگا میں کھڑا ہوں گا۔</p> <p>أَيْسُونُ: بجلی کے مجموعات میں سے ایک ذرہ جب اس بجلی میں کمی ہو جائے تو مثبت ہوتا ہے اور جب زیادتی ہو جائے تو منفی ہوتا ہے۔</p> <p>أَيْدُ: کچھ اور کہو۔ یا کرو۔ یا سناؤ۔</p> <p>أَيْسَا و أَيْأُ و أَيْأَةُ و أَيْأَةُ: الشَّمْسُ: آفتاب کی روشنی۔ اور ایسا ہی نباتات کی روشنی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ والایساة: آفتاب کے گرد کا دائرہ۔</p>	<p>الْأَيْسَةُ: پچاس یا اس سے زائد عمر والی عورت۔</p> <p>أَصْ يَبِيضُ أَيْضًا: لوٹنا۔ کہا جاتا ہے ”فَعَلَهُ أَيْضًا“ اس نے اس کو بھی کیا۔ ایضاً پر نصب مصدریت یا حالت کی بنا پر ہے۔ ایک حالت سے دوسری حالت پر ہونا۔ کہا جاتا ہے ”أَصْ سَوَادٌ شَعْرَهُ بَيَاضًا“ اس کے بالوں کی سیاہی سفیدی سے بدل گئی۔</p> <p>الْأَيْقُونَةُ: مجسمہ۔ اٹیچو۔ اس کے مقابل میں عربی لفظ النَضْمَةُ ہے۔</p> <p>أَيْكُ (س) (اَيْكَا و اِسْتَايِكُ. الشَّجَرُ: گنجان ہونا۔</p> <p>الْأَيْكُ: گنجان داخت۔ واحد (أَيْكَةُ) الْاَيْكُ: پھل دار۔</p> <p>أَيْلُ: عبرانی میں اللہ تعالیٰ کا نام۔ معنی قوی، قدر۔</p> <p>الْأَيْلُ و الْأَيْلُ و الْأَيْلُ: بارہ سنگھاج ایل۔ اَيْلُولُ: ماہِ تمبر (روی مینے کا نام)</p> <p>أَمْ يَنْبِئُ أَيْمَةَ أَيُّوسَا و أَيْمًا: الرَّجُلُ مِنْ زَوْجِيهِ أَوْ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا: راند و بیوہ ہوتا۔ صفت مذکر مؤنث (أَيْم) نَجْ أَيْسَلِيمُ و أَيْسَمِي و أَيْمُونُ و أَيْمَاتُ۔</p> <p>أَيْمَهُ: راند بیوہ کرنا۔</p> <p>تَأْيِمُ: عرصہ تک بے نکاح کے رہنا۔</p> <p>الْأَيْمُ: سائب۔ خراڑ دہا۔ نَجْ اَيُّومُ۔</p> <p>أَيْمُ اللّٰهِ: اللہ کی قسم</p> <p>الْأَيْمَةُ: عیب و نقص۔ کہا جاتا ہے ”الْحَرْبُ</p>	<p>لئے آتا ہے۔ جیسے يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ</p> <p>أَيْأُ: وہ حرف جو ضمائر منصوبہ مفصلہ کے شروع میں لگایا جاتا ہے جس سے مقصد شخصیت پیدا کرتا ہوتا ہے جیسے ”أَيْأُكَ أَعْمَى“</p> <p>أَيْأُ: بعید کے لئے حرف ندا ہے اور بھی ہمزہ کوہ سے بدل کر ہیا بولتے ہیں۔</p> <p>أَذْيَبُذْ أَيْذًا و آذًا: مضبوط و سخت ہونا۔</p> <p>أَيْدَةُ تَسَائِدًا و آيِدَةُ مُوَايِدَةً: قوی کرنا۔ ثابت کرنا۔ صفت (مُوَايِدُ و مُوَايِدُ): حسرت مفعول مُوَايِدُ و مُوَايِدُ (تَأْيِدُ): قوی ہونا۔</p> <p>الْأَيْدُ و الْأَيْدُ: قوت۔</p> <p>الْأَيْسَادُ: ہر وہ چیز جو کسی چیز کے لئے باعث تقویت ہو۔ پردہ۔ پناہ۔ فضاء آسانی۔ مضبوط پہاڑ۔</p> <p>أَيْأُ الْخَيْشِ: فوج کا دایاں و بائیں بازو۔</p> <p>الْأَيْدُ: قوی</p> <p>الْمُوَايِدُ: بڑا معاملہ۔ مصیبت۔ نَجْ حَاوِذُ مُوَايِدُ۔</p> <p>أَيْأُ: ماہِ مئی (روی مینے کا نام)</p> <p>أَيْسُكَ: پیٹ کی صفائی کے لئے دوائی استعمال کی جاتی ہے۔</p> <p>أَيْدُيُولُوجِيَا: تصورات اور افکار میں بحث کرنے والا فن۔ ایک خاص مذہب جو افکار کو ہی بنیاد تصور کرتا ہے۔</p> <p>أَيْسُ: (س) اَيْسَا. جنہ: نا امید ہونا۔ صفت (أَيْسُ)</p> <p>يَسُهُ و أَيْسُهُ اَيْسَا: نا امید کر دینا۔</p>
--	--	--



ب: حروف جز میں سے ہے۔ معانی ذیل کے لئے مستعمل ہے۔

الْبَاءُ: دوسرا حرف ابتدائی حروف میں سے۔ اس کا مخرج دونوں ہونٹوں کا ملنا ہے۔ حساب جمل میں اس کا نمبر (۲) ہے۔

(۱) الْأَصَاقُ: جیسے 'أَمْسَكَتْ بِالْعِلَامِ' میں نے علام کو پکڑ لیا۔

(۲) اسْتَعَانَهُ: جیسے 'كَبَّتْ بِالْقَلَمِ': میں نے قلم سے لکھا۔

(۳) مُصَاحِبٌ: 'أَذْهَبَ بِسَلَامٍ': سلامتی کے ساتھ جاؤ۔

(۴) ظَرْفِيَّةٌ: جیسے 'سَارَ بِاللَّيْلِ': وہ رات میں چلا۔

(۵) بَدَلٌ: جیسے 'بَاعَ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ': اس نے ایمان کے بدلے کفر لیا۔

(۶) تَعْدِيَةٌ: جیسے 'ذَهَبْتُ بِهِ إِلَى الْيَثِ' میں اس کو گھر تک لے گیا۔

(۷) قَسَمٌ: جیسے 'بِاللَّهِ': اللہ کی قسم۔

(۸) سَبِيَّةٌ: 'الْقَيْثُ بِزَيْدِ الْأَهْوَالِ' میں زید کی وجہ سے خطرات میں پڑ گیا۔

(۹) تَسَاكُودٌ: اور یہ زائد ہوتا ہے اور زیادتی کے موافق حسب ذیل ہیں۔

كَانَ مَنِّي كَيْ خَبْرٍ جِيسَ "وَمَا كَانَ بِمُنْكَرٍ" یہ منکر نہیں۔ لیس: کی خبر میں جیسے "لَيْسَ زَيْدٌ بِقَالِمٍ": زید لکھتا نہیں ہے۔ ما: مشابہ۔ بلس: کی خبر میں جیسے "مَا السُّلَّةُ بِعَاقِلٍ" اللہ فاعل نہیں ہے۔

اور فاعل صیغہ تعجب کے فاعل پر جیسے "أَكْرَمُ بِهِ"

أَخْمِسُ بِهِ: اور شس و تین کے تا کی دلانے میں جیسے "جَاءَ الْوَزِيرُ بِنَفْسِهِ": وزیر خود آیا۔

اور كَفَى: کے فاعل پر جیسے "كَفَى بِالسُّلَّةِ شَهِيدًا" اور مفعول پر جبکہ اس کا تعدیہ ایک مفعول کی طرف ہو جیسے "كَفَى بِالسُّرْعَى كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ": اور مبتدا پر سہاٹی حیثیت سے جیسے بِحَسْبِكَ دِرْهَمٌ: بجائے "حَسْبُكَ دِرْهَمٌ": کے۔

اور اذا: فاتیہ کے بعد قیامی حیثیت سے جیسے خَرَجْتُ فَإِذَا بَزِيدٌ فِي الطَّرِيقِ: اور اس حال پر جس کا عامل منی ہو جیسے "فَمَا رَجَعْتُ بِخَانِيَةِ رِكَابٍ" اور بھی عن و علی و الی کے معنی میں آتا ہے۔

النَّاسُ: یو پ ج سب ابوات نسبت کے لئے (بابوی)

بَنَسَا: ة و بہ: کسی سے سبسی و انت و امی کہتا۔

الْوَالِدُ: نایا کہتا۔

السُّؤْبُ: اصل درمیانی حصہ۔ آنکھ کی پتلی۔ عالم۔ خوش طرح سردار

بَسَائِلُ: خمرات کے کنارے کا وہ مشہور شہر جو کلدانیوں کا دارالسلطنت تھا۔ جس کو نمرود نے بسایا تھا۔

النَّابِلِيُّ: جاوہر۔ شراب۔ زہر۔

النَّبَاطِيُّ: السَّبَابُجُ وَالنَّبَابُوشُ: جوت کی ایک قسم۔ ج یوایج

النَّبَاتِيُّ: السَّبَابُجُ وَالنَّبَابُوشُ: جوت کی ایک قسم۔ ج یوایج

النَّبَاتِيُّ: السَّبَابُجُ وَالنَّبَابُوشُ: جوت کی ایک قسم۔ ج یوایج

النَّبَاتِيُّ: السَّبَابُجُ وَالنَّبَابُوشُ: جوت کی ایک قسم۔ ج یوایج

النَّبَاتِيُّ: السَّبَابُجُ وَالنَّبَابُوشُ: جوت کی ایک قسم۔ ج یوایج

البَابُوشُ: السَّبَابُجُ وَالنَّبَابُوشُ: جوت کی ایک قسم۔ ج یوایج

النَّبَاتِيُّ: السَّبَابُجُ وَالنَّبَابُوشُ: جوت کی ایک قسم۔ ج یوایج

النَّبَاتِيُّ: السَّبَابُجُ وَالنَّبَابُوشُ: جوت کی ایک قسم۔ ج یوایج

النَّبَاتِيُّ: السَّبَابُجُ وَالنَّبَابُوشُ: جوت کی ایک قسم۔ ج یوایج

النَّبَاتِيُّ: السَّبَابُجُ وَالنَّبَابُوشُ: جوت کی ایک قسم۔ ج یوایج

النَّبَاتِيُّ: السَّبَابُجُ وَالنَّبَابُوشُ: جوت کی ایک قسم۔ ج یوایج

النَّبَاتِيُّ: السَّبَابُجُ وَالنَّبَابُوشُ: جوت کی ایک قسم۔ ج یوایج

النَّبَاتِيُّ: السَّبَابُجُ وَالنَّبَابُوشُ: جوت کی ایک قسم۔ ج یوایج

النَّبَاتِيُّ: السَّبَابُجُ وَالنَّبَابُوشُ: جوت کی ایک قسم۔ ج یوایج

النَّبَاتِيُّ: السَّبَابُجُ وَالنَّبَابُوشُ: جوت کی ایک قسم۔ ج یوایج

النَّبَاتِيُّ: السَّبَابُجُ وَالنَّبَابُوشُ: جوت کی ایک قسم۔ ج یوایج

النَّبَاتِيُّ: السَّبَابُجُ وَالنَّبَابُوشُ: جوت کی ایک قسم۔ ج یوایج

النَّبَاتِيُّ: السَّبَابُجُ وَالنَّبَابُوشُ: جوت کی ایک قسم۔ ج یوایج

النَّبَاتِيُّ: السَّبَابُجُ وَالنَّبَابُوشُ: جوت کی ایک قسم۔ ج یوایج

البازة: قمرش کا چالیسواں حصہ۔ جہازات۔ الباز فاعلج والباز فاعلج: بجٹ۔ فہرست حدیث کے راویوں اور اسنو کتب کی فہرست۔ البازؤد: پارود۔ البازؤفة: بندوق۔ جہاز بوند۔ بازؤفة: کسی ممتاز شخصیت کا لقب جس کو یورپ میں زمین حکومت وقت تختہ دیا کرتی تھی۔ الباز: جہازان و بوز و ابوز و (الباز و البازی): جہاز و بوز و بوزان و بوزانہ: باز۔ الباز دار: باز وغیرہ شکاری پرندہ رکھنے والا۔ ج بزازرة۔ البازار: بازار۔ البازرکان: سوداگر۔ البازفلیط: عیسائیوں کے نزدیک روح مقدس اقوم ثالث جس کا ترجمہ فریاد طلب کیا گیا۔ (یونانی)۔ بار یوم: سفید دھات جس کی علامت Ba ہے۔ البازھر: دیکھئے۔ بادزھر۔ بوس: (ک) بناسا: مضبوط و بہادر ہونا۔ صفت (بنس و بنیس)۔ بنس: (س) بنوسا و بنینسا و بوسا و بوسا: سخت حاجت مند ہونا۔ صفت۔ (بالس) جہ بوس۔ بنیس: فعل ماضی جامد ہے۔ مذمت کے لئے مستعمل ہے اور بنیس الریحل سے بنا ہے۔ بنیس: مصیبتیں پڑنا۔ صفت: مصیبتوں اور سختیوں میں مبتلا کرنا۔ بنانس: حکمت مفلس بننا بنانس: ناپسند کرنا۔ ممکن ہونا۔ اور اسی سے ہے "لا تبنیسن بما کانوا یفعلون": جو کچھ وہ کرتے ہیں اس پر غم نہ کیجئے۔ بناس: بہادری۔ قوت۔ خوف۔ عذاب۔ لاباس بہ: اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ لاباس علیک: تمہارے اوپر کوئی	خوف نہیں۔ لاباس فیہ: اس میں کوئی حرج نہیں۔ لاباس ان تعرفوا: تمہارے جاننے میں کوئی دشواری نہیں۔ البوس: جہ ابوس و (الباساء و البوسی) شدت و ہتاجی و الباساء: بڑائی۔ بھوک۔ بنات بنس: مصیبتیں۔ بنس: و بنس الغذاب: سخت عذاب۔ الباسیلیق: کہنی کے قریب ایک رگ کا نام۔ بناش: ریحس۔ باش کا تب۔ بیڈ کلرک۔ الباسا: پاشا کا معرب۔ جو ایک معزز لقب ہے جس کو سلطان ترکی مخصوص مراتب کے لحاظ سے دیا کرتا تھا۔ جہ باشادات و باشات۔ الباشق: ایک شکاری پرندہ۔ قباط: لینا۔ فارغ البال ہونا۔ مطمئن ہونا۔ عنه: اعراض کرنا۔ باقہ: (ن) بنو قفا و انباق۔ علیہ الویل: اچانک آنا۔ الباقہ: گلدستہ۔ بنول: (ک) بنو لہ و نبالہ: کمزور اور ذلیل ہونا۔ صفت (بنیل) بالطو: گلاب اس کی عربی معطف ہے۔ بانو تولو جیا: جنگلی جانوروں کی ریسرچ کا علم۔ بان: لمبے پتوں والا درخت سفید پھولوں والا جس سے تیل نکالا جاتا ہے۔ البال: ویل مچھلی۔ البالہ: عند التجار: کپڑوں کا بڈل۔ اس کی فصیح عربی امالہ ہے۔ البالو: ناچ گھر۔ اس کی فصیح عربی موصف ہے (جدید) البالون: عباہ۔ اس کی فصیح عربی منطاد ہے۔ (جدید) بانظلون: پتلون شلوار کی طرح انگریزی پاجامہ۔ البامیا: بھنڈی ترکاری۔ (جدید)	بآة: (ف) بانھا: سمجھنا۔ کہا جاتا ہے "مبانہ للأمر أو بالأمر": اس نے معاملہ کو نہیں سمجھا۔ الباب: مونا درخت جو افریقہ میں پایا جاتا ہے۔ (Baobab) بأی: (ف) بانوا۔ علیہم: فخر کرنا۔ تکبر کرنا۔ بای: مالدار یا صاحب گھر۔ ایشیا کے علاقہ میں صاحب قیادہ کو بولتے ہیں۔ البب: طریقہ۔ الببر و الببر: شیر۔ ببر۔ جہ ببر البغاء و البغاء و البغاء: طوطا۔ ج ببغاوات ببنا: (ف) باننا۔ بالمکان: اقامت کرنا۔ ببہ: (ن) بننا و ببنا و ببنا: کاٹنا۔ الأمر: نافذ کرنا۔ الببہ: پختہ ارادہ کرنا۔ الربحیل: مشقت میں ڈالنا۔ ببئہ: نکلنے نکلنے کرنا۔ توشہ دینا۔ الوعدہ: پختہ وعدہ کرنا۔ تبئت: نکلنے نکلنے ہونا۔ توشہ لینا۔ ابئت: کٹ جانا۔ البائت: کائنے والا۔ ذبائت بائت: لازمی بیج۔ البئت: مونا کپڑا۔ جہ بنوت۔ البئات: توشہ۔ سامان۔ گھریلو سامان۔ ج ابئہ: کہا جاتا ہے۔ ہو علی بنات أمر: وہ کام کے قریب جاگا۔ البئہ: بنت: کا اسم مرثیۃ و بنت و بنتا: یقیناً کہا جاتا ہے "لا أفعلہ البئہ": میں اس کو یقیناً نہیں کروں گا۔ البسات و البسی: مونا کپڑا بننے والا یا بیچنے والا۔ البسیۃ: نکلی کا پڑا پیا۔ جہ بتائی۔ البسی: اونٹنی۔ ببترہ: (ن) بترا: کاٹنا۔ ببتر: (س) بترا و ابترا: کٹ جانا ببترہ: اللہ۔ بے اولاد کرونا۔
--	---	---

الب نسر و البتار و البتار : شمشیر برائ۔ ج
ابنور۔

الابتر : کتا ہوا۔ ذم کتا..... من الحیات :
چھوٹا زہریلا سانپ۔ لا ولد۔ الابتران :
غلام و جنگلی گدھا۔ مؤنث بشراء و البشراء
من السخطب : وہ خطبہ جو حمد الہی سے خالی
ہو۔

البشورل : زمین کی معدنیات میں سے ایک
اعلیٰ قسم کا پٹرول جو کافی صفائی کرنے کے بعد
حاصل ہوتا ہے۔

بتبع : (س) بتعنا : مضبوط گردن یا مضبوط
جوڑوں والا ہونا۔ صفت (اتبع) : مؤنث
بتعنا بتبع۔

بتبع : (ن) بتوعا۔ جنہ : پیچھے رہ جانا۔ کہا
جاتا ہے "بتبع فی الارض" : وہ دور تک
چلا گیا۔

بتبع : (ض) بتعا۔ البتبع : شراب بنانا۔
الابتبع : پر گوشت گھسا ہوا۔ کہا جاتا ہے
جانوا کلہم ابتعون : وہ سب کے سب
آئے۔

البتع و البتع : شراب۔ شہد یا عصارہ۔ کھجور
کی تیز نمید۔ البتع : مرد روز اقامت۔

بتک : (ن ض) بتکا و بتک : کاٹنا۔
بتک و ابتک : کتنا۔

البتک : کترا۔ ج بتک۔
البابک و البتوک : کاٹنے والا۔ تلوار۔

بتل : (ن ض) بتلا و بتل۔ الشی : کاٹ
کر چد کرنا۔

بتل و بتل : دنیا سے بے تعلق ہو کر خدا کی
طرف متوجہ ہونا۔ شادی نہ کرنا۔

ابتل : کتنا۔
عطاء (بتل) : بے مثل عطیہ۔ آخری عطیہ۔

البشورل : غیر شادی شدہ عورت جو شادی کی
طرف رغبت نہ کرے۔

البثولہ و البثولیۃ : تجرد کی حالت۔
البثیل : دنیا سے بے تعلق۔ وادی کے نچلے
حصے کی نالی۔ "خصر بئیل" : پٹی کر۔ ج

بتل۔
أبتولا : خوبصورت عمدہ لکڑی والے درخت
جو کہ زیادہ تر روس میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس
کی لکڑی انتہائی قیمتی شمار ہوتی ہے۔

البیتلہ : بمعنی بتول (..... و البتلاء) : کھجور
کا چھوٹا پودہ جو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری
جگہ لگایا گیا ہو۔

السبتل : وہ کھجور جس کی شاخیں کاٹ کر
دوسری جگہ لگائی گئی ہوں۔

بت : (ن ض) بتا و بتت۔ البت : خبر
پھیلانا۔ الشی : کھیرنا۔ البتار : غبار
اڑانا۔

بت و بتا و ابت۔ فلانا البتیر : آگاہ
کرنا۔ بتانا۔

بتا : القوم الأسترا : ایک دوسرے کو راز
بتانا۔

البت : پھیلانا۔ متفرق ہونا۔ غبار وغیرہ کا
اڑانا۔

استبتہ البتیر : کسی سے خبر پوچھنا۔
البت : پرائندگی حال۔ سخت نم۔

بتت : البتیر : پھیلانا۔ البتار : اڑانا۔
بتیر : (ض) کو بتیر (س) کو بتیر : (ک)

بترا و بترا و بتورا و بتیر۔ و جہہ : چہرے
پر پھینسیاں لگانا۔ صفت (بتیر و بتیر)

البتائر : فاء بغير كودے ہوئے نکلنے والا
پانی۔ حاسد۔

البتر : بھینسی واحد (بتر) ج بتور۔
البتیر : بہت۔ کہا جاتا ہے "کتبیر بتیر"
المبتور : بہت مالدار۔ وہ شخص جس پر حسد کیا
جائے۔

بتت (س) بتعنا۔ الشفة خاصة : کثرت
خون سے سرخ ہونا۔

الابتع : وہ شخص جس کے ہونٹ کثرت خون
سے سرخ ہو گئے ہوں۔ مؤنث بتعنا ج بتع۔

بتق (ن) بتقا و بتساقا و بتق السبل
الموضع : سیلاب کا جگہ کو پھاڑ دینا۔ بتق
النہر : پانی اچھی طرح بہنے کے لئے دریا کے

بند کو توڑ دینا۔

إبتق : الماء : بہہ پڑنا۔ بالكلام : تیز
بولنا۔

البتق و البتق : دریا کے کنارے کی ٹوٹی ہوئی
جگہ۔ ج بتق۔

البتع : پرندے کا بچہ۔
بتعہ (ن) بتعا : پھاڑنا۔ نیزہ مارنا۔ بیع
الكلاء الناقه : موٹا کرنا۔

إبتع : پھینا۔
الابتع : كشاده آکھ والا۔ مؤنث بتعا۔ کہا
جاتا ہے "عین بتعا" : کشادہ آکھ۔

البتعہ : پھنسی جو آکھ میں نکلتی ہے۔
بتعج : الصبی : بچے کو بہلانا۔

بتعج : اللحم : ڈھیلا ہونا۔
بتعج (س) بتعجا : بہ خوش ہونا۔

البتعاج : موٹا گوشت سے بھرا ہوا۔
رطل بتعاج : جمع شدہ ریت۔

بتعج : فخر کرنا۔ بڑا بننا۔
البتعاج : بہت فخر کرنے والا۔

بتجد (ن) بتجودا و بتجد : بالممكن :
اقامت کرنا۔

التجد : من الناس : جماعت۔ من
البتجل : سواد موسے زاند گھوڑے۔

بتجدہ الأمر و بتجدته و بتجدته :
حقیقت۔ اصلیت۔ کہا جاتا ہے : "عندہ
بتجدہ الأمر" وہ حقیقت شناس ہے۔ "وہو
إبتن بتجدہ الأمر" وہ معاملہ کی حقیقت کا
جاننے والا ہے۔

البتجاد : دھاری دار کپڑا۔ ج بتجد۔
بتجر (س) بتجرا۔ الرجل : موٹی جڑوالی
اور باہر کو نکلی ہوئی ناف والا ہونا۔ بڑے
پیٹ والا ہونا۔ دودھ اور پانی سے پیٹ
بھرنے کے باوجود سیراب نہ ہونا۔ صفت
(بتجر و البتجر)

بتجر : البتجد : پینے میں زیادتی کرنا۔
البتاجر : فاء۔ چولے ہوئے پیٹ والا۔ ج
بتجرۃ : البتجرۃ : ناف۔ چہرہ۔ عیب ج بتجر۔

کہا جاتا ہے "ذکو عَجْرَة و بَجْرَة": اس نے اس کے عیوب ظاہری و باطنی سب بیان کر دیئے۔	نام۔ ج۔ اَباجِل	بَاخَعَة: خطاب کرنا۔ گنگٹلو کرنا۔
البَجْرَج اَباجِر و اَباجِر و (البَجْرِي) ج۔ بَجْرِي: بَرَانِي۔ مصیبت۔ بڑا معاملہ۔ کہا جاتا ہے "لَقِيْتُ مِنْهُ البَجْرِي": اس سے مجھے مصیبتیں حاصل ہوئیں۔	بَجْم (ض) بَجْمًا و بُجْمًا: گھبراہٹ یا عاجزی سے خاموش ہو جانا۔	بَتَّحَتْ و اِنْبَحَتْ و اِسْتَبَحَتْ: غنہ، تفتیش کرنا۔
البَحْرُ ج بَحُور: علماء عروض کی اصطلاح میں شعروں کا وزن۔	بَجْم: بمعنی مجرد۔ دیر کرنا۔ تیز نظرۃ النہ۔ متفتیش ہونا۔	البَحْث: بھٹ۔ مٹی کے نیچے کسی چیز کا تلاش کرنا۔ تفتیش۔ تحقیق۔ سونے وغیرہ کی کان۔
البَحْرَاء: سخت اور بلند زمین۔ زمین جس میں گھاس نہ اُگے۔	البَحْم: جھاڑ کا پھل۔ واحد بَحْمَة	ج اَبْحَاث ج اَبْحَاث: بڑا سناپ۔
البَحْرَام: مصیبتیں۔	بَح (س) بَحًا و بَحْحًا و بُحُوْحًا و بَحَاْحًا و بُحُوْحَة و بَحَاْحَة: گلو گرفتہ ہونا۔	البَحِيْث: بھید۔ کہا جاتا ہے "بَدَا بَحِيْثُهُمْ" ان کا بھید ظاہر ہو گیا۔
بَحْس: (ن ض) بَحْسًا و بَحْسًا: المَاء: پانی جاری کرنا السَّوْح: زخم چیرنا بَحْس فَلَانًا: گالی دینا۔	بَحْشِي ہوئی آواز والا ہونا۔ صفت (اَبْح) مَوْنِث بَحَاء: ج بَحْ	البَحِيْثَات: بہت بحث کرنے والا۔
بَحْس و اَبْحَس و تَبْحَس: المَاء: پانی جاری ہونا۔ بہنا۔	اَبْحَة و بَحْحَة: کسی کی آواز کو بھاری کر دینا۔	السُّبْحَات: بمعنی بحث۔ یا بکھود کرید۔ ج مباحث مباحث القور: غیر معلوم جگہ۔
البَحْس و البَحْس: بے والا۔ عَيْنُ بَحْس: بہت پانی والا چشمہ۔ ماء بَحْس: بہتا ہوا پانی۔	البَحْحَة: آواز میں بھاری پن اور خشونت۔	بے آب و گیاہ زمین۔
بَجْعَة (ف) بَجْعًا: تلوار سے کاٹنا۔	بَحْح و تَبْحَح: اچھی طرح ٹھہرنا۔	اَلْمُبْحَثَة: بحث و تفتیش
البَجْع: ایک قسم کا پرندہ جس کی چونچ لمبی اور چوڑی ہوتی ہے اور اس کی چونچ کے نیچے بڑا سا پونا ہوتا ہے۔ واحد بَجْعَة۔	تَبْحَح الدار: گھر کے وسط میں ٹھہرنا۔	بَحْشَر الشَّيْءِ بَحْشُورَة: متفرق کرنا۔ بکھیرنا۔ کھولنا۔
بَجَل (ن) او بَجَل (س) بَجَلًا و بُجُولًا: خوش ہونا۔ خوش حال ہونا۔ صفت (باجل)	"تَبْحَحَتِ العَرَبُ فِي لغَاتِهَا" توسع کرنا۔	تَبْحَشَر (ف): بکھرنا۔ جدا جدا کرنا۔ ظاہر ہونا۔
بَجَل (ك) بَجَلَة و بُجُولًا: معزز ہونا۔ صفت (بجیل)	بَحْحُوْحَة: الدار: وسط۔ درمیان۔	بَجْر (س) بَجْرًا: سمندر دیکھ کر ڈرتے حیران یا مبہوت ہونا۔ سخت پیاسا ہونے کی وجہ سے سیراب نہ ہونا۔ صفت (بجور)
اَلْبَجَلَة الشَّيْءِ: کافی ہونا۔	اَلْقَيْش: فراخی زندگی۔	بَجْر (ف) بَجْرًا: الأَرْضُ: شق کرنا
بَجْلَة: تعظیم کرنا۔	البَحْبَحَة: جماعت	السَّنَاقَة: کان چیرنا۔ صفت مفعول (بجيرة)
اَلْبَجَل: بہتان۔ تعجب۔ دعات۔ دون ہستی۔	اَلْبَحْبَحَة: بد خو عورت۔	بَحَاْحِر و بُحُوْر
بَجَل: حرف جو اب مثل نعم کے۔ اسم فعل بمعنی حسب: تم کہتے ہوئے۔ "بجلك": یعنی تمہارے لئے کافی ہے۔	بَحْح (ك) (بَحْحُوْحَة): خالص ہونا۔	اَبْحُوْر: سمندر میں سفر کرنا اَلْمَاء: کھاری ہونا الأَرْضُ: زمین میں متعدد پانی کے گڑھے ہونا۔
اَلْبَجَل: بڑا بہتان۔	اَلْبَحْح: محض خالص۔ شراب بَحْح: سادہ بغیر کسی چیز سے ملا ہوا۔ مَشْكُ بَحْح: خالص مشک۔ عَرَبِيّ بَحْح: خالص عربی و الا عربی مَوْنِث بَحْحَة: بحث کا لفظ واحد متضاد: جمع "مذکر" مَوْنِث سب کے لئے آتا ہے۔ اگر چاہو تو مَوْنِث متضاد جمع لاسکتے ہو۔	بَحْحُوْر ج اَبْحُوْر: بُحُوْر و بَحَار. اَلْبَحْرُ اَلْمُتَوَسِّطُ او بَحْرُ الرُّومِ: یورپ ایشیا اور افریقہ کے درمیان کا سمندر۔ اَلْبَحْرُ اَلْمُحِيطُ: پانچ براعظموں کو گھیرنے والا سمندر۔ بَحْرُ الطَّلَمَاتِ: بحر الملائک جو یورپ افریقہ اور امریکہ کے درمیان ہے۔
اَلْبَجَل: وسیع و فراخ	بَحْح (ف) بَحْحًا: فِي الأَرْضِ: کھودنا اور اسی سے مثل ہے "كَمَا لَبَّحْتُ عَنْ حَقِيقَة بَطْلَانِي" یعنی وہ اپنی بلاکت و برپادی کا سامان خود پیدا کرتا ہے غنہ: تفتیش کرنا۔	

بَخَصْرَة: پانی کے جمع ہونے کی جگہ۔ پست ملاقہ۔ بزاباش۔ حوض۔ ببحار و ببحر البخري: بحر کی جانب منسوب (.....) والبخار: ملاح۔ البخيرة: جمیل۔ الباجر: مہبت۔ بے وقوف۔ فضولی۔ الباحور و الباخوزاء: ماہ جولائی کی سخت گرمی۔ الباخوز: چاند۔ البخيران: فی عرف الاطباء: امراض حادہ کا وہ فقیر جو اچانک پیدا ہوتا ہے۔ نیز شدت مرض سے قوت مدد کے میں ضلل پیدا ہونا۔ البخريين: ایک شہر کا نام نسبت کے لئے (جرانی) خلاف قیاس۔ بخ (ان) بخا: فی النوم: خراٹے لینا۔ غصہ تھنڈا کرنا۔ بخ: اسم فعل ہے تعریف اور اظہار خوشنودی کے لئے مستعمل ہے اور تاکید کے لئے مکرر بولتے ہیں۔ کہتے ہیں بخ بخ کرہ سے۔ یا توین سے معنی واہوا۔ آفریں شاہاش۔ بخبخ: فی النوم: خراٹے لینا..... البعير: اونٹ کا پہلانا اور منہ کا جھاگ سے بھر جانا۔ الرجل: کسی کو شاہاش دینا۔ بخبخ و تبخبخ: الخو: کم ہو جانا۔ بخته (ان) بختا: مارنا۔ بخته: الا جواب کروینا۔ بخت: بزدل ہونا۔ البخت: نصیب (فارسی کلمہ ہے جس کے لئے فصح لفظ الخط سے) البخيت و المبخوت: نصیب اور۔ بختو بخترة و بختو: خوش رفتاری سے چلنا۔ متکبرانہ چال چلنا۔ البخترية و البخترية: متکبرانہ چال۔ بخرت (ف) بخرا: القدر: بھاپ نکلنا۔ بخو (س) بخرا: الفم: گندہ ذہن ہونا۔ صفت (بخو) بخر: بھاپ نکالنا۔ بخرة و بخر عليه: دھوئی دینا۔ دھوئی دے کے خوشبودار بنانا۔	تبخر: دھوئی لینا۔ دھوئی سے خوشبودار ہونا۔ البخار: بھاپ بخ بخرة البخيرة: اسیر البخور: ہر وہ چیز جس سے دھوئی دی جائے بخ اور بخورات بخور مزيم و بخور الاكراد و بخورا البر و بخورا السودان و بخورا الزبير: مختلف قسم کے نباتات کے نام۔ المبخرة: عمود سوز۔ المبخرة: باعث گندہ ذہنی۔ اسی سے وہ روایت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے "اياكم و نومة العداة فانها مبخرة مخفرة معفرة": صبح کوسونے سے پر بیز کر داس لئے کہ اس سے گندہ ذہنی پیدا ہوتی ہے۔ (مخففة) بدن کے فساد کا سبب اور (معفرة) طبعیت کی خشکی بخز (ان) بخزا: عينه: آنکھ پھوڑنا۔ بخسه (ف) بخسا: گھٹانا اور اسی سے ہے "لا تبخس اخاك حقاً" اپنے بھائی کا حق مت گھٹاؤ۔ ظلم کرنا۔ بخس عليه: آنکھ پھوڑنا۔ بخس: القوم: ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا۔ البخس: مص: ناقص۔ قرآن عزیز میں ہے "وشرورة بضمن بخس" ان کو بہت ہی کم قیمت کو بیچ ڈالا۔ البخس: وہ زمین جو بغیر سیراب کئے ہوئے پیداوار آگائے۔ البخسي: من الزرع: وہ کھیتی جو بغیر آبیاری کے پیدا ہو۔ الباخس: انگلیاں۔ بخس يبخس: سوراخ کرنا۔ ابخس: سوراخ ابخيشيش: مٹھائی عطیہ رشوت کی صورت میں یا عزت کی صورت میں۔ عام عربی میں یہ الفاظ بہت شاذ ہیں۔ البخيشيش: بخشش۔ انعام (اس کے لئے فصح لفظ الراشن اور الحلوان ہیں)	بخصص (ف) بخصصا: عينه: آنکھ نکال لینا۔ بخصص (س) بخصصا: الرجل: کسی کی آنکھ کے اوپر یا نیچے غدہ ہونا۔ صفت (ابخصص): مؤنث بخصصا بخخص بخصص: تیز نظر سے دیکھنا۔ پلکوں کا اُلٹ جانا۔ البخصص: قدم کا گوشت۔ انگلیوں کی جز کا گوشت۔ مبخوص: القدمين: وہ شخص جس کے قدموں میں گوشت کم ہو۔ بخع (ف) بخعا: نفسه: غم یا غصہ سے اپنے آپ کو بلکان میں ڈالنا۔ الشاة: ذبح کرنے میں گدی تک کاٹ دینا..... لسه نصحه: خالص خیر خواہی کرنا..... الركية: کنواں پانی نکلنے تک کھوٹنا..... "قلنا خيرة" تصدیق کرنا۔ بخع (س) بخوعا و بخاعة: بالحق: اقرار کرنا۔ حق کے سامنے جھک جانا۔ بخق (ف) بخقا و ابخق: عينه: کافی کرنا پھوڑنا۔ رجل (ابخق و باخق و بخيق و مبخوق): کانارد۔ عین (بخقا و باخقا و بخيقا و مبخوقا): کافی آنکھ۔ البخاق: نر بھیڑیا۔ بخقت (س) بخقا: عينه: بری طرح کافی ہونا۔ بخل (س) بخلا و بخل (ک) بخلا: بخیل ہونا۔ کجسوس ہونا۔ صفت بخيل ج بخلاء عليه و عنه: کسی سے بخل کرنا۔ صفت باخل ج بخل بخله: بخل کی جانب منسوب کرنا۔ ابخله: بخیل پانا۔ البخال و البخال و المبخل و البخل: بہت کجسوس۔ المبخلة: باعث بخل اور اسی سے ہے"
--	---	---

أَوْلَادٌ مَبْنُوعَةٌ مَبْنُوعَةٌ
 لڑکا باعث بخل اور باعث بزدلی ہوتا ہے۔
 الْبَحْبُوحُ: کنوٹ۔ ایک قسم کا زنا نہ بند۔
 بَخَا (ن) بَخْوًا: غَضَبُهُ: غَضَبُهُ سے تھمنا۔
 بَدَأَ (ن) بَدَأًا: رَجُلِيَّةً: ناگئیس پھیلا نا۔
 الرَّجُلُ عَنِ الشَّيْءِ: دور کرنا۔ روکنا۔
 بَدَأَ (س) بَدَأًا: زِيَادَتِي: گوشت کی وجہ سے
 دونوں رانوں میں فاصلہ ہونا۔
 بَدَأَ الشَّيْءُ: مَتَفَرَّقَ: بَكِيرًا: بکھیرنا۔ الرجل: تھکانا۔
 بِأَدْمَانَةٍ وَبَدَأًا: مَادِلَهُ: کے طور پر بیچنا۔
 الْقَوْمُ فِي السَّفَرِ: ہر ایک کا اپنا اپنا زاد
 سفر لانا اور پھرجمل کر خرچ کرنا۔
 أَبَدًا: الشَّيْءُ يَنْتَهِي: ہر ایک کا حصہ دینا۔
 بَدَأَ: زَمِينٍ كِي طَرَفٍ: ہاتھ بڑھانا۔
 تَبَدَّدَ: مَتَفَرَّقَ: ہونا۔ الْقَوْمُ الشَّيْءِ: آپس
 میں حصے تقسیم کرنا۔
 ابْتَدَأَ: الرَّجُلَانِ فَلَانًا بِالضَّرْبِ: دو
 آدمیوں کا کسی کو دونوں جانب سے مارنا۔
 تَبَادَرَا: الْقَوْمُ: ہا ہم مقابلہ کے لئے ٹکٹا اور
 اپنے اپنے حریف کو پکڑنا۔ دو دو آدمیوں کا
 فاصلہ سے ٹکرنا۔
 ابْتَدَأَ: بَكْدًا: اپنے آپ کو ترجیح دینا۔
 الْأَمْرُ بِفُلَانٍ: کسی معاملہ کا بے قابو ہو
 جانا۔
 الْبَدْوُ الْبَدِيدُ: مثل وظیر
 البُد: چارہ کار۔ بھاگنے کی جگہ۔ تم کہتے ہو
 لَا بُدَّ مِنْ هَذَا: یہ لازمی ہے۔ بدلہ
 وَالْبُدَّةُ وَالْبَدَادُ: حصہ۔
 البَدَادُ: مقابلے کے لئے ٹکٹا۔ ہسر لوگ۔
 کہا جاتا ہے "لَقَبُوا ابْدَادَهُمْ" وہ لوگ اپنے
 حریفوں سے ملے۔ "وَبَدَادُوا وَبَدَادُوا بَدَادًا"
 یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب یہ کہنا مقصود ہو
 کہ ہر شخص اپنے اپنے فرین کو پکڑے۔ "وَ
 جَاءَتْ الْخَيْلُ بَدَادًا" گھوڑے متفرق
 متفرق آئے۔
 الْبَدْوُ وَالْبُدَّةُ: طاقت۔ حاجت۔ الْآبَدُ: وہ

شخص جس کے ہاتھ یا رانوں میں فاصلہ ہو۔
 بڑے جسم والا۔ مَوْنَتٌ بَدَاءً: کہا جاتا ہے
 ذَهَبُوا (آبادید تبادید) یعنی وہ لوگ متفرق
 ہو گئے۔ "وَظَيْرًا آبَادِيدٌ وَتَبَادِيدٌ" متفرق
 پرندے۔
 الْمُسْتَبَدُّ: کام شروع کر کے خاتمہ ہی پر دم
 لینے والا۔
 بَدَأَ: (ف) بَدَأًا وَابْتَدَأَ وَتَبَدَّأَ: الشَّيْءُ وَبِهِ
 شروع کرنا۔ پہلے کرنا۔ بَدَأَ بِفُلَانٍ: آگے
 بڑھانا۔ بَدَأَ الشَّيْءُ: شروع کرنا۔ پیدا کرنا۔
 بَدَأَ وَابْتَدَأَ: اللہ الخلق: پیدا کرنا۔
 صفت (بادی و مبدی) ابْدَأَ الرَّجُلُ: عجیب
 چیز لانا۔ تجب انگیز کام کرنا اور کہا جاتا ہے
 فَلَانٌ مَا يَبْدِي وَمَا يُعِيدُ: یعنی فلاں کچھ بھی
 نہیں بولتا۔
 بَدَأَ: شروع کرنا۔ فضیلت دینا۔
 الْبَدَاءُ وَالْبَدَاءُ وَالْبَدَائَةُ وَالْبَدَاءُ:
 شروع۔ ابتداء۔ کہا جاتا ہے "أَفْعَلُهُ بَدَانًا
 بَدَاءَ بَدِيَّةً وَابْتَدَأَ بَدِيَّةً وَبَدَاءَةً
 ذِي بَدِيَّةً" یعنی میں اس کو ساری چیزوں سے
 پہلے کروں گا۔
 وَالْبَدَائَةُ: کسی جگہ کے لئے سفر کی ابتداء۔ تم
 کہتے ہو "اَلْخَسْرَةُ الْفَرَسِ لِبَدَاءَةِ
 وَالرَّجْعَةِ" میں نے گھوڑے کو آمد و رفت کے
 لئے کرایہ پر لیا۔ بدو کی جمع ابتداء و بُدُوَّةُ
 الْمَبْدَأُ: اصل۔ سب سے مبادی
 الْمُسْتَبَدُّ: پہلا۔ وہ اسم مسند الیہ جو عموماً
 لفظیہ سے خالی ہو۔
 الْإِبْتِدَاءُ: پہلا کہا جاتا ہے۔ الْمَحْكَمَةُ
 الْإِبْتِدَائِيَّةُ: وہ جگہ جو فیصلہ کرنے کا زیادہ
 اختیار رکھتا ہے۔ التَّغْلِيمُ الْإِبْتِدَائِيُّ: ابتدائی
 تعلیم۔ سکیڈری ایجوکیشن کا لفظ اب اردو
 میں بھی مستعمل ہے۔
 الشَّهَادَةُ الْإِبْتِدَائِيَّةُ: پرائمری سند۔
 أَبَدًا الرَّجُلُ: عمدہ کلام لانا۔ کہا جاتا
 ہے۔ فَلَانٌ مَا يَبْدِي وَمَا يُعِيدُ: یعنی فلاں
 آدمی نہ تو عمدہ پیش کر سکتا ہے اور نہ اس کو

اعادہ کر سکتا ہے۔
 بَدَخَ (ف) بَدَخًا: ذُ بِالْعَصَاءِ: لالچی سے
 مارنا۔ بِالْبَسْرِ: ظاہر کرنا۔
 تَبَادَحُوا: بِالشَّيْءِ: ہا ہم مل کر پھینکنا
 البَدْحُ وَبَدْحٌ وَبَدْحٌ وَبَدْحٌ: (البداح) ج
 بَدْحٌ وَبَدْحٌ: (بَدْحٌ): وَسِجٌ زَمِينٍ۔
 بَدَخَ (ف) بَدَخًا: (ك) بَدَخًا وَ
 بَدَاخَةٌ: عالی مرتبہ ہونا۔ صفت (بسیخ) ج
 بَدَخَاءُ
 تَبَدَّخَ: عَلَيْهِ: بڑا بننا۔
 بَدَرَ (ن) بَدْرًا: إِلَى الشَّيْءِ: جلدی کرنا۔
 هِيَ الشَّيْءِ: کسی چیز کے لئے کسی سے
 سبقت کرنا۔
 بَادَرُ مَبَادِرَةً وَبَادَرًا: إِلَى الشَّيْءِ: جلدی
 کرنا۔ الشَّيْءِ: وقوع سے پہلے کرنا۔ "بَادَرُ
 فَلَانًا الشَّيْءَ وَالْيَهْيَةَ": کسی چیز کے لئے کسی
 سے سبقت کرنا۔ آگے بڑھ جانا۔
 تَبَادَرَا: الْقَوْمُ: جلدی کرنا۔
 تَبَادَرَا: الْقَوْمُ: الْقَوْمُ أَمْرًا: بعض کا بعض
 سے سبقت کرنے کے لئے بڑھنا۔
 أَبَدَرُ: مَا كَالِ طُلُوعِ هُونًا: چودھویں رات
 میں چلنا۔
 أَبَدَرُ: مَا كَالِ: چودھویں رات کا چاند طبق
 ج بَدَوْرُ
 أَبَدَرُ: جلدی کرنے والا۔ سبقت کرنے والا
 ج بَوَادِرُ
 أَبَدَرِي: جازے سے کچھ پہلے کی بارش
 أَبَدَرِي: مسابقت۔ کہا جاتا ہے۔ "اسْتَبَقْنَا
 الْبَدَرِي": ہم نے ایک دوسرے سے سبقت
 لے جانے کی لئے دوڑ کی۔
 البَدْرَةُ: دس ہزار درہم۔ مِنَ الْمَالِ: بڑی
 مائیت۔ دس ہزار درہم کی تھلی۔ ج بَدَرُو
 بُدُوْرُ کہتے ہیں "فَلَانٌ يَهْبُ الْبُدُوْرُ" فلاں
 دس ہزار کی تھیلیاں بہہ کرتا ہے۔
 الْمَبْدُورَةُ: بکری کے بچے کی کھال۔
 الْبَادِرَةُ: تیزی یا تیزی کے وقت کی خفیف
 الحركتي۔ ج بَوَادِرُ: کہا جاتا ہے "بَدْرَتْ مَه"

میں حج کے موقع پر کی جائے۔ عورتوں کی بغیر آستین والی قمیص۔ بَدَنَات. و بُدُن
الْبُدْنَانِ وَالْمُبْدِنُ: مونے جسم والا۔
تاور۔

بَدَه (ف) بَدَّهَا وَبَادَاهُ الرَّجُلُ: کسی کے پاس اچانک آنا۔ صفت (بَادَاهُ) مَوْت (بَادَاهَةُ) مَوْتِ بَوَادِه

تَبَادَهُو: الشَّعْرُ وَالنُّخْبُ: باجم بے فکرو تامل کے شعر پر حسنا یا تقریر کرنا۔
ابْتَدَاهُ: النُّخْبَةُ: بے فکرو تامل کے تقریر کرنا۔
صفت (مُبْتَدِه و مُبْدِه)

الْبِدَاهَةُ وَالْبِدَاهَةُ: ہر چیز کا آغاز۔ کہا جاتا ہے "لِحَقَّةٍ فِي بَدَاهَةِ خَزِيْبِهِ": دور کے آغاز ہی میں اس سے جاملا۔ اچانک۔

بَدِيْهَا وَعَلَى الْبَدِيْهِ: فی البدیہہ
الْبَدِيْهِ: اچانک۔ فوری بے غور و فکر کہا جاتا ہے "أَجَابَ عَلَى الْبَدِيْهِ": اس نے بے غور و فکر جواب دیا۔ مَبْدِيْہہ کہا جاتا ہے "هَذَا مَعْلُوْمٌ فِي بَدَائِهِ الْعُقُوْلُ" یہ بدیہی طور پر معلوم ہے۔ "وَلِفْلَانٍ بَدَائِهِ فِي الْكَلَامِ" یعنی فلاں کی گفتگو بہت عجیب و غریب ہے۔

الْبَدِيْهِ: بدیہی۔ (وہ چیز جس کے جاننے کے لئے غور و فکر کی ضرورت نہ ہو)
السَّبِيْهِ: فی البدیہہ بولنے والا۔ اچانک آنے والا۔

بَدَا (ن) بَدَّوْا وَبَدَّوْا وَبَدَّوْا: ظاہر ہونا۔ صفت (بَاد) ج بَادُوْنَ وَبَدَّوْا وَبَدَّوْا
..... لَهُ فِي أَمْرٍ: خیال سوچنا۔

بَدَا (ن) بَدَّوْا وَبَدَّوْا وَبَدَّوْا: یاد دہی کی طرف جانا۔ یاد دہی میں اقامت اختیار کرنا۔ صفت (الْبَدُوْی وَتَبْدُوْی) ظاہر ہونا۔
أَبْدَى: الْأَمْرُ: ظاہر کرنا..... فسی کَلَامِہ: جرات دکھانا۔ اسی سے ہے "السُّلْطَانُ ذُوْعُدُوَانٍ وَذُوْبَدُوَانٍ": بادشاہ جرات و دلیری والا ہے۔

بَدَى: بِالْعَدَاوَةِ: کھلم کھلا دشمنی ظاہر کرنا
.....: کوئی بات کسی سے صفائی سے کہنا۔ کھلم

بَدَّغ (ک) بَدَّغَةُ: پانچا نہ میں پانچا نہ کرنا۔ صفت (بَدَّغ)
بَدَّل (ن) بَدَّلَا وَابْدَلْ وَبَدَّلْ: الشَّيْءُ: بدلنا۔ بدلہ میں لینا۔

بَدَّل (س) بَدَّلَا: بَدَّوْا یا جوروں میں درو والا ہونا۔

بَدَّلْ وَابْدَلْ: الشَّيْءُ مِنْهُ: بدلہ میں لینا و بدلے الشَّيْءُ شَيْئًا: آخر۔ بدل دینا۔ کہا جاتا ہے "بَدَّلَ السَّلْمَةُ الْخَوْفَ أَمْنًا": اللہ نے خوف کو امن سے بدل دیا۔
بَادَلَهُ: بَكَدَا: بدل دینا۔

تَبَدَّلَا وَتَبَادَلَا: تَوْبِيْهُمَا: ایک دوسرے سے بدل لینا۔ تَبَدَّلْ: بدل جانا۔ متغیر ہونا۔
تَبَدَّلْهُ وَاسْتَبَدَّلْهُ: بَكَدَا: بدلہ میں لینا جیسے "تَبَدَّلَتِ الدَّارُ بِالسَّهْوِ وَخَشَا": مکان کی اُنسیت وحشت سے بدل گئی۔

الْبَدَّلُ وَالْبَدَّلُ وَالْبَدِيْلُ: بدلہ۔ جانشین۔
بَدَّلْ: فَيَاضُ: شَرِيْفٌ: کہا جاتا ہے "رَجُلٌ بَدَّلُ وَبَدَّلُ": ج اَبْدَالُ وَبُدْلَاءُ الْبَدَّلُ: جوڑوں یا ہاتھ پیروں یا بڈیوں کا درد اور اسی سے ہے "زُبُّ بَدَلٍ شَرٌّ مِنْ بَدَلٍ": بہت سے عموں بڈی کے درد سے نہ ہے ہیں۔
الْأَبْدَالُ: صالحین کی وہ جماعت جن سے دنیا کبھی خالی نہیں رہی۔ کہتے ہیں کہ جب ان میں سے کوئی مرتا ہے تو فوراً دوسرا اس کا قائم مقام ہو جاتا ہے۔

الْبَدَالُ: کھانے پینے کی چیزوں کا بیچنے والا۔ بنیا۔ عوام۔ بقال کہتے ہیں۔

الْبَادِلَةُ: بغل اور پستان کے درمیان کا گوشت۔

بَدَن (ن) بَدَّنَا وَبَدَّنَا وَبَدَّنَا: بَدَّنَا وَبَدَّنَا وَبَدَّنَا (ک) بَدَّنَا وَبَدَّنَا: مونے بدن والا ہونا۔ صفت (بَادِن) مَوْتِ (بَادِن) بَادِنَةُ: ج بَدْنُ وَ (بَدِيْن) ج بَدْنُ

بَدَّنَهُ: زَرَهُ: پہنا نا۔ و بَدَّنَ: بڑی عمر کا ہونا۔
الْبَدْنُ: جَم: مَبْدَانُ: چھوٹی زرہ ج بَدْنُ
الْبَدْنَةُ: وہ گائے یا اونٹ جس کی قربانی ملے

بَوَادِيْرُ غَضَبٍ: اس سے غصہ کی حرکتیں صادر ہوئیں۔ الْبَادِرَةُ: تیر کی نوک۔ کہا جاتا ہے "أَصَابَنِي بَادِرَةُ السَّهْمِ": اس کو تیر کی نوک لگی۔ مونڈھے اور گردن کے درمیان کا گوشت۔

بَدَارُ: اِسْمُ فَعْلٍ مَعْنَى اسرع۔ یعنی جلدی کرنا۔ الْبَدَارُ: کھلیاں۔ ج تَبَادُرُ.

بَدَّع (ف) بَدَّعَا: الشَّيْءُ: گھڑنا۔ بغیر نمونہ کے کوئی چیز بنانا۔ ابتدا کرنا۔ ایجاد کرنا۔

بَدَّع (ک) بَدَّعَا وَبَدَّعَا وَبَدَّوْغَا: بے مثال ہونا۔ انوکھا ہونا۔

بَدَّع (س) بَدَّعَا: مَوْتِ بَوَادِه: صفت (بَدِّيْع) بَدَّعَا: بدعت کی نسبت کرنا۔

أَبْدَعَ: کسی کام کو خوش اسلوبی سے کرنا..... بَدَّ: چھوڑ دینا (..... وَابْتَدَعَ) الشَّيْءُ: ایجاد کرنا..... الرَّجُلُ: بدعت نکالنا۔

تَبَدَّع: بدعتی ہونا۔
اسْتَبَدَّعَ: الشَّيْءُ: عجیب و نادر سمجھنا۔

الْبَدَّعُ: انوکھا۔ تا تجربہ کار مرد۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ بَدَّعٌ فِي الْأَمْوَالِ" فلاں نے اس کام کو پہلی مرتبہ کیا۔ مَبْدَعُ وَبَدَّوْعُ الْبَدَّعَةُ: بغیر نمونہ کے بنائی ہوئی چیز۔ دین میں نئی رسم۔ وہ عقیدہ یا عمل جس کی کوئی اصل قرونِ ثلاثہ مشہور و لمہا بغیر میں نہ ملے۔ مَبْدَعُ

الْبَدِّيْعُ: اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ہے۔ کہا جاتا ہے "اللَّهُ بَدِّيْعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ": اللہ نے آسمان و زمین کو بغیر کسی نمونہ کے پیدا کیا ہے۔ انوکھی چیز۔ انوکھی چیز بنانے والا۔ مَوْتِ مَخِيْ مَشْكُ.

عِلْمُ الْبَدِّيْعِ: وہ علم جس سے کلام کی محسنات لفظیہ و معنویہ معلوم ہوں۔

الْمُبْدِعُوْنَ: بدعتی لوگ۔

بَدَّع (س) بَدَّعَا: زمین پر گھسنا۔

بَدَّع (ف) بَدَّعَا: الْجَوْرًا وَالْمَلُوْرًا: اُخْرُوْتِ يَابَادِمِ تَوْرَتَا۔

کی عمرگی - مروت
الْمَيْدَمُ: مضبوط اونٹنی

بَدَأُ (ن) بَدَأُوا وَأَبْدَأُوا ابْتَدَأُوا عَلَيْهِ :
فُحْشٌ كَمَا -

بَدَأُوا (ک) بَدَأُوا وَبَدَأَتْهُ فُحْشٌ كَوْهَاتُ -
صَفَتْ (بَدِي) مَجَابِدِيَاءَ مَوْنَتْ (بَدِيَّة) (بَدِيَّة)
الْبَدَاءُ: بے ہودہ کلام -

بَدَأَ (ن) بَدَأَ وَمَيَّرَهُ. وَالْبَدَةُ: اطاعت کرنا -
حَسَنُ سُلُوكٍ كَرَمًا - خَدَمْتُ كَرَمًا - صَفْتُ (بَسْر)
مَجَابِرًا وَبَدَأَ مَجَابِرَةً

بَسْرٌ (س) بَسْرًا وَبَسْرًا وَبَسْرًا. فِي
قَوْلِهِ: مَجَابِرًا خَالِقَةً: اطاعت کرنا

بَسْرَتُ السَّيْمَنِ: قسم پوری ہونا - بَسْرَتُ
الصَّلَاةِ: نماز کا مقبول ہونا - بَسْرُ اللَّهِ الصَّلَاةُ:
نماز کو قبول کرنا -

بَسْرَةٌ: نیک چلن قرار دینا - جب جواز پیدا کرنا -
بَاذَةٌ: حسن سلوک کرنا - مہربانی کا برتاؤ کرنا -

أَبْرٌ: خشکی کا سفر کرنا عَلَيْهِ: غالب ہونا -
فَاتِحٌ ہونا اللَّهُ حَجَّتُهُ: قبول کرنا

أَلْسِمِنٌ بَسْرٌ: نیک ہونا - سبکی کے اظہار کا
ارادہ کرنا - تَبْرَةٌ: اطاعت کرنا -

تَبَارٌ: القَوْمُ: ہر ایک کا دوسرے کے ساتھ
سبکی کرنا -

ابْتَرٌ: ساتھیوں سے کنارہ کش ہونا -
الْبَسْرُ: اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے

ہے - نیکو کار - خشک زمین - مَجَابِرٌ: کہا
جاتا ہے "جَلَسْتُ بَسْرًا" میں گھر سے باہر

بیٹھا - "مَخْرَجُ بَسْرًا" وہ بیابان کی طرف نکلا -
"وَأَرِيدُ جَوْأً وَبَسْرًا" میں پوشیدگی

چاہتا ہوں اور وہ اعلانیہ (یہ قدیم محاورہ نہیں
ہے)

الْبَسْرُ: عطیہ - طاعت - صلاحیت - سچائی -
نیک دل - لومڑی کا بچہ - چوہا - بڑا چوہا -

أَلْبَرٌ: گیہوں - واحد (بُرَّة)
الْبَسْرُ وَالْبَارُ: نیکو کار - بھلائی کرنے والا -

بہت سبکی کرنے والا - سچانے والا - بَدْرٌ وَبَدْرَةٌ
الْبَرِيُّ: ضد بحری مِنْ النَّبَاتِ: جنگلی

..... مِنَ الْحَيَوَانَ حَشِي

الْبَرِّيَّةُ: جنگل بیابان - مَجَابِرِي

الْبَرَّانِي: ظاہر - کہا جاتا ہے "مَنْ أَصْلَحَ
جَوَانِيهٖ أَصْلَحَ اللَّهُ بَرِّيَّةً": جو شخص اپنے
باطن کو درست کر لے گا اللہ اس کے ظاہر کو
درست کر دے گا -

الْبَرِّيَّةُ: جنگل - بیابان - مَجَابِرِيَّةُ
أَبْرٌ: اسم تفضیل - عرب کا قول "أَصْلَحَ
العَرَبِ أَبْرُهُمْ" کا مقصد یہ ہے کہ عرب کا

سب سے زیادہ مَجَابِرِي وہ بدوی ہے جو شہر سے
بہت دور ہو -

الْبَرِّيُّ: اچھی بات -
الْمَبْرُوءَةُ: جو سبکی پر ابھارے - عطیہ - مَجَابِرِيَّةُ

مَبْرَاتٌ وَمَبْرَارٌ
الْمَبْرُورُ: مِنَ الْأَفْعَالِ: شبہ - جھوٹ خیانت
سے خالی -

الْبَرِّيُّ: درخت پیلو کا پہلا پھل - واحد بَرِّيَّةُ
بَرَّاءَةٌ (ف) بَرَّاءَةٌ أَوْ بَرَّاءَةٌ: نیست سے
ہست کرنا -

بَرِّيُّ (س) بَرَّاءَةٌ أَوْ بَرَّاءَةٌ: مِنْ
الْغَيْبِ وَالذَّنْبِ: خلاصی پانا - نجات پانا -

بَرِّيُّ (س) وَبَرَّاءَةٌ (ف) وَبَرَّاءَةٌ (ک)
بَرَّاءَةٌ أَوْ بَرَّاءَةٌ: مِنَ الْمَرَضِ: شفا یاب
ہونا - چنگا ہونا -

بَرَّاءَةٌ بَرِّيَّةٌ: بری کرنا - پاک کرنا مِنْ
التَّهْمَةِ: دور کرنا -

أَبْرًا: الْمَرِيضُ: شفا دینا هُ مِنْ الدِّينِ:
بری کر دینا الرَّجُلُ: مہینے کی پہلی رات
میں داخل ہونا -

بَارًا: شَرِيكَةٌ: شریک سے جدائی اختیار کر
لینا -

بَرًّا: مِنَ الذَّنْبِ: گناہ سے بیزار ہونا -
بَرًّا: الزَّوْجَانِ: شوہر بیوی کا ایک دوسرے
سے جدا ہونا -

إِسْتَبْرًا: قَرْضٌ يَأْتِيهِ مِنَ بَرِّاتٍ طَلَبُ كَرَمًا -
الْبَرِّيُّ وَالْبَرِّيَّةُ: خالص - خالی - گناہ و تہمت
سے پاک - مَجَابِرِيُونٌ وَبَرَّاءَةٌ وَبَرَّاءَةٌ

أَبْرَاءٌ وَأَبْرَاءَةٌ - مَوْنَتْ بَرِّيَّةٌ وَبَرِّيَّةٌ مَجَابِرِيَّةٌ
بَرِّيَّةَاتٌ وَبَرِّيَّاتٌ وَبَرِّيَّاتٌ

الْبَرَّاءُ: مہینے کی پہلی رات - "إِسْمُ الْبَرَّاءِ"
مہینے کی آخری رات - کہا جاتا ہے "أَنَّ أَبْرَاءَ
مِنْ كَذَا" میں اس سے بری ہوں - (اس کا
مشابہ جمع نہیں اور نہ اس کے لئے مَوْنَتْ

ہے)

الْبَرَّاءَةُ: شکاری کی جھونپڑی - مَجَابِرِيَّةُ
الْبَرَّاءَةُ: بَرِّيُّ کا مصدر - فرمان - پروانہ - مَجَابِرِيَّةُ

بَرَّاتٌ
الْبَرَّاءَةُ: پیدا کرنے والا - صحت یاب جس کی
لاغری باقی ہو -

الْبَرِّيَّةُ: مخلوق - مَجَابِرِيَّةُ
الْبَرِّيَّةُ وَالْبَرِّيَّةُ: پرندہ کی گردن کے پر -

الْبَرِّيَّةُ: مرغ
بَرَّاءَةٌ وَبَرَّاءَةٌ وَبَرَّاءَةٌ: الطَّلَبُ: پرندہ کا
لڑنے کے لئے گردن کے پر کھڑے کرنا -

الْبَرِّيَّةُ: مٹی کا پرنا لہ - مَجَابِرِيَّةُ
بَرَّاءَةٌ: بک بک کرنا - بڑبڑانا - صفت
(بَرَّاءَةٌ)

بَرِّيَّةٌ: وحشی ہونا -
الْبَرِّيَّةُ: قوم بربر کا ایک فرد -

الْبَرِّيَّةُ: مغربی افریقہ کی ایک قوم اور بسا
اوقات اس لفظ کا اطلاق زنگیوں اور حبشیوں
پر بھی ہوتا ہے - مَجَابِرِيَّةُ وَبَرَّاءَةٌ

الْبَرِّيَّةُ: شیر -
بَرِّيَّةٌ: طلب کرنا -

بَرِّيَّةٌ: کتے کی مانند چلنا -
الْبَرِّيَّةُ: گھبراہٹوں -

بَرِّيَّةٌ: الْأَرْضُ: سبوتا -
الْبَرِّيَّةُ: بربط (پاؤں)

بَرَّتْ (ض) بَرَّتًا: الشَّيْءُ كَأَنَّ
بَرَّتْ (س) بَرَّتًا: حیران ہونا -

الْبَرَّتُ وَالْبَرِّيَّةُ: چینی - شکر سفید -
الْبَرِّيَّةُ: کلباڑا -

الْبَرِّيَّةُ وَالْبَرِّيَّةُ: ماہر راہبر - مَجَابِرِيَّةُ
الْبَرِّيَّةُ: نارنگی - نارنگی کا درخت - واحد

(موتقانه)

بَسْرُوكَ بَسْرُوكَةَ. الفُؤَبُ: بھارتنا۔ مگرے مگرے کرنا..... الشُّي: چھوٹی کی مانند کانٹا۔
الْبَسْرَاتِيكُ: چھوٹے ٹیلے (جمع ہے اس کا واحد نہیں)

بِرُوْت (س) بزٹا: خوش حالی میں زندگی بسر کرنا۔

الْبِرُوْتُ: نرم و ہموار زمین پر ابراث و ابراث و بُرُوْت

الْبُرُوْتِيْنُ: مِنَ السَّبَاعِ وَ الطَّيْرِ: پیچھے۔ چنگل
بِرُوْتِيْنُ: شوكت و قوت۔

بِرُوْح (س) بزخا: کھاتا پیتا ہونا۔ بزحمت غیشہ: آکھ کا سیاہ اور کشادہ ہونا۔ خوبصورت ہونا۔ صفت (اَبْرُوْح) اور آکھ کی صفت

(بزجاء) بِرُوْح: ظاہر ہونا۔ بلند ہونا۔

بُرُوْح و اَبْرُوْح: برن بنانا۔

تَبْرُوْحِيْتُ: المَرْوَةُ: اجنبیوں کے سامنے آراستہ ہو کر ٹھکانا۔

اَبْرُوْح: خوبصورت۔ نمایاں۔ روشن۔ بَرُوْح اَبْرُوْح

الْبِرُوْح: سِتْوَانٌ۔ قَلْدٌ۔ مَحَلٌ۔ مَنَارٌ۔ كُنْبَدٌ۔ بَرُوْح بَرُوْح و اَبْرُوْح و اَبْرُوْحِيَّةُ: اَبْرُوْح: آسمانی برجوں میں سے ایک۔ آسمانی برج بارہ ہیں جن کے نام یہ ہیں: مَحَلٌ ثُوْرٌ جُوْرَاءُ سُرطَانٌ

اَسْدٌ سُنْبُلَةٌ مِيزَانٌ۔ عَقْرَبٌ۔ قَوْسٌ۔ جَدْيٌ۔ دِلْوَادٌ و حَوْتٌ۔

فَلْنُكُ الْبِرُوْحُ: وہ دائرہ جس کو سورج آسمان میں بناتا ہے اور یہ دائرہ بارہ حصوں پر مشتمل ہے۔ ہر ایک کے ۳۰ درجے ہیں۔

ماہرین اس کا نام دائرہ گرہن رکھتے ہیں۔
البُرُوْحُ: ماہر کشتی بان۔

البَارِيْحَةُ: بڑی جنگل کشتی۔ بزج سوارج کہتے ہیں "مَنْ فَلَانٌ اِلَّا بِاَرِيْحَةٍ فَذُ جَمْعٌ فِيْهِ كُلُّ الشَّرِّ": یعنی فلاں بڑا شریر ہے۔ "سَفِيْنَةُ الْبَارِيْحَةِ": کھلی ہوئی کشتی۔

تَبَارِيْحُ الْبَنَاتِ: بنات کے پھول۔

اَلْبُرُوْحِيَّةُ: دودھ پلونے کا آلہ۔

اَلْبُرُوْحِيَّةُ: چراغ کی ایک قسم جو مسافر سواریوں کے ساتھ لگاتے تھے۔

اَلْبُرُوْحِيَّةُ: سونا و دھاری دار کھیل۔

اَلْبُرُوْحِيَّةُ: ایک ستارہ کا نام جس کو مشتری کہتے ہیں۔ بہت دودھ والی آؤٹھی۔

اَلْبُرُوْحِيَّةُ: بزجاء: انگلیوں کے جوڑ۔ ہاتھ پیر کی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں۔ انگلیوں کے جوڑ کی پشت۔

اَلْبُرُوْحِيَّةُ: قبیلہ تمیم کی ایک شاخ۔ "اِنَّ الشَّقِيَّ وَ اَفْذُ الْبُرُوْحِيَّةِ" مثل عرب میں سے ہے اس شخص کے حق میں بولتے ہیں جو لالچ کی وجہ سے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے۔ اس کا واقعہ یوں ہوا کہ جب سوید بن ربیعہ نے عمرو بن ہند کے بھائی کو مار ڈالا تو عمرو بن ہند نے بتویم کے سو آدمیوں کو

جلائے کی قسم کھائی اور بنو دارم (قبیلہ بنی تمیم کی ایک شاخ) کے ننانوے آدمیوں کو قتل کر کے جلائے لگا تو ایک شخص جو براجہ میں سے تھا گوشت کے جلنے کی بو پا کر وہاں آ موجود ہوا عمرو بن ہند نے اس کو بھی قتل کر کے اپنی قسم پوری کر لی۔

بِرُوْح (س) بزخا و بزحما: المَکَانَ وَ مِصْرَةٌ: بِنَا۔ جِدَا ہونا۔ زائل ہونا۔ کہا جاتا ہے "مَنْ بَرُوْحٌ وَ لَا بَرُوْحٌ غَيْبٌ": بمعنی مازال وَ لَا زَلْتُ۔ بزح الخفاء: ظاہر ہونا۔

بِرُوْح (ن) بزخا: الرُّجُلُ: غضبناک ہونا..... (بُرُوْحًا) الضَّيْلُ: داہنی جانب سے گزرتا۔ صفت (بَسْرُوْح) و بَسْرُوْح و بَرُوْحِيَّةُ

بِرُوْح: بِه الْاَمْرُ: تمھانا۔ سخت تکلیف دینا۔

اللَّهُ عَنَكَ: تکلیف دور کرنا۔

اَبْرُوْحَةٌ: بِنَا۔ تَعْظِيْمٌ کرنا۔ تعجب میں ڈالنا۔

بَارُوْح: المَکَانَ: جھاڑو بنانا۔

اَلْبُرُوْحُ: بَرُوْح و اَبْرُوْح و (اَلْبُرُوْحِيَّةُ): سختی۔ تکلیف۔ برائی۔

اَلْبُرُوْحُ: دہشت انگیز معاملہ۔

اَمْرٌ (بُرُوْح): تکلیف دہ معاملہ۔

اَلْبُرُوْحُ: کشادہ زمین جس میں درخت اور عمارت نہ ہو۔ کہا جاتا ہے "لَا بُرُوْحَ" کوئی چارہ کار نہیں۔ "وَجَاءَ نَا الْاَمْرُ بِرَاْحًا" معاملہ نمایاں طور پر سامنے آ گیا۔ "وَجَاءَ بِالسُّكْحُوْرِ بِرَاْحًا" اس نے کھلم کھلا کفر کا اظہار کیا۔

بُرُوْح: بَرُوْرُنُ قِطَامٌ: آفتاب کیلئے علم ہے۔

اَلْبَارُوْحُ وَ الْبَارُوْحَةُ: گزشتہ رات۔ اَلْبَارُوْحَةُ الْاَوَّلٰی: گزشتہ رات سے پہلی رات۔ کہا جاتا ہے "هَذِهِ فَعْلَةٌ بَارُوْحَةٌ" یہ فعل غلط اور غیر ارادی ہے۔

بُرُوْحِيَّةُ: ایک کلمہ جس کو نشانہ میں غلطی کے وقت بولتے ہیں اور بُرُوْحِيَّةُ اس کے خلاف ہے۔

اَلْبَارُوْحُ: گرم ہونا۔ بَرُوْحِيَّةُ: اَبْنُ بُرُوْحِيَّةُ: کوا۔

اَلْبُرُوْحِيَّةُ: مشقت ہائے زندگی۔ کہا جاتا ہے "تَبَارِيْحُ الشُّوْقِ" سوزشہائے عشق۔

بُرُوْدٌ (ن) بُرُوْدٌ و بُرُوْدَةٌ: بُرُوْدَةٌ: ٹھنڈا ہونا۔ صفت (بُرُوْدٌ و بُرُوْدَةٌ و بُرُوْدٌ) بُرُوْدَتُ الْاَرْضِ: اوالے پڑنا۔ بُرُوْدُ الْقَوْمِ: سردی لگنا یا اوالے پڑنا۔ بُرُوْدُ الْحَقِّ عَلَيْهِ اَوَّلُهُ: ثابت ہونا۔ بُرُوْدُ فَلَانٍ: سونا۔ ست ہونا۔ کہا جاتا ہے "جَدُّ هِيَ الْاَمْرُ ثُمَّ بُرُوْدٌ" اس نے معاملہ میں کوشش کی پھر ٹھنڈا پڑ گیا۔

بُرُوْدٌ (ن) بُرُوْدًا: اَلْحَدِيْدُ: ریتی سے رگڑنا۔ اَلْمُخْبِرُ: بروٹی پر پانی ڈالنا۔

اَلْعَيْنُ: ٹھنڈا سرد لگانا۔

بُرُوْدَةٌ (ن) بُرُوْدًا و بُرُوْدَةٌ: ٹھنڈا کرنا۔

اَلْبُرُوْحُ: تکلیف کو ہلکا کرنا۔ سکون دینا۔

اَلْحَقُّ: ثابت کرنا۔ واجب کرنا۔ سردنا

اللَّهُ و بُرُوْدٌ عَلَيْنَا: رات کو ٹھنڈک لگنا۔

اَلْبُرُوْدُ: موسم سرما یا اولوں میں داخل ہونا۔

اَلْبُرُوْدُ: قاصد بھیجنا۔ الشُّي: ٹھنڈا

اَلْبُرُوْدُ: کھلی ہوئی کشتی۔

<p>شک و یقین کے درمیان کی حالت۔</p> <p>البُرْزُغُ وَ البُرْزَاغُ وَ البُرْزُوعُ : نشاط۔ جوانی۔ کڑیل جوان۔</p> <p>تَبْرُزُوقِي : القَوْمُ : بغیر گھوڑوں اور اونٹوں کے جمع ہونا۔</p> <p>البُرْزَاوِيقُ : لوگوں کی جماعتیں۔ بڑے رات کے ارگرد چھوٹے راستے۔ واحد بُرْزُوقِي</p> <p>بُرْسُ (س) بُرْسَا : مقروض پرختی کرتا۔</p> <p>بُرْسُ : الارض : نرم بنانا۔</p> <p>البُرْسُ وَ البُرْسُ : روٹی۔</p> <p>البُرْسِيَانُ : ایک قسم کی کھجور۔</p> <p>البُرْسُ كُحُوْبُ : ایسا شیشہ جس کے ذریعے رکاوٹوں کے باوجود کافی حد تک دکھائی دیتا ہے۔</p> <p>بُرْسُ مَسْمُوعُ : برسام میں مبتلا کر دینا۔</p> <p>البُرْسَامُ : ایک ہڈیائی بیماری۔</p> <p>بُرْسِمُ : برسام میں مبتلا ہونا۔ صفت (مُبْرَسِمُ)</p> <p>بُرْشُ (س) بُرْشَا وَ ابْرُشُ : سفید انگوٹھ والا ہونا۔ صفت (ابْرُشُ وَ مُبْرُشُ) : مکان۔</p> <p>ابْرُشُ : مختلف رنگوں کی بہت ناستات والی زمین۔ سنۃ بُرْشَاءُ : سال جس میں گھاس کی پیداوار بہت ہو۔</p> <p>البُرْشَةُ وَ البُرْشُ : سفید داغ۔</p> <p>البُرْشُ : سفید انگوٹھ والا۔</p> <p>بُرْشَطُ : اللَحْمُ : کاشا۔</p> <p>البُرْشُوعُ وَ البُرْشَاعُ : بدخلق۔</p> <p>بُرْشُقُ : اللَحْمُ : کاشا۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔</p> <p>فَلَانَا بِالسُّوْطِ : کوڑے سے مارنا۔</p> <p>ابْرُشُقُ : شادماں ہونا۔ صفت (مُبْرُشُقُ)</p> <p>الشَّجْرُ كَلِي كَلْتَا النُّوْرُ : کھانا۔</p> <p>بُرْشَكُ الْجُوْرُزُ : ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔</p> <p>بُرْشَمُ بُرْشَمَةٌ وَ بُرْشَامَا : الرَّجُلُ غَمُّ كِي وَجْهٍ خَامُوشٌ ہونا۔ اَلْبَسَ : گھورتا۔ تیز نظر سے دیکھنا۔</p> <p>البُرْشَمُ : برقع۔</p> <p>البُرْشِمُ : تیز نظر والا۔</p> <p>بُرْشُنُ : الرِسَالَةُ : گوند سے چپکانا۔</p>	<p>البُرْدُ : ریتی۔</p> <p>المُسْرَدَةُ : وہ چیز جو سختک پیدا کرنے والی ہو۔ کہا جاتا ہے "هَذَا مُسْرَدَةٌ لِلْبَدَنِ" یہ بدن کو سختک پہنچانے والی ہے۔</p> <p>البُرْدَعَةُ وَ البُرْدَعَةُ : پالان کے نیچے ڈالنے کا کھیل۔</p> <p>البُرْدُوْنُ : بُنُوْ - گھوڑا۔ ترکی گھوڑا۔ ج بُرْدُوْدِيْنُ</p> <p>بُرْدُوْنُ القُرْسُ : ترکی گھوڑے کی طرح چلنا۔ ٹوک کی طرح چلنا۔ الرَّجُلُ : مغلوب کرنا۔</p> <p>بُرْدُوْنُ (ن) بُرْدُوْرَا : میدان کی طرف نکلنا۔</p> <p>بُرْدُوْرَا (ن) بُرْدُوْرَا (س) بُرْدُوْرَا : گناہی کے بعد مشہور ہونا۔ صفت (بُرْدُوْرَا)</p> <p>بُرْدُوْرَا (ک) بُرْدُوْرَا : فضل یا شجاعت میں اپنے ہمسروں سے بڑھ جانا۔ صفت (بُرْدُوْرَا) : مَوْنَتُ (بُرْدُوْرَا)</p> <p>أَبْرُوْرَهُ : نکالنا۔ الْكِتَابُ : شائع کرنا۔ الرَّجُلُ : ارادہ سفر کرنا۔</p> <p>بُرْدُوْرَا : پانچا نہ کرنا۔ الشَّيْءُ : نکالنا۔ ظاہر کرنا۔</p> <p>القُرْسُ : گھوڑ دوڑ کے میدان میں آگے بڑھ جانا۔ السُّوْجُلُ فِی السُّعْلَمِ : ہمسروں سے فاتح ہونا۔</p> <p>بَارْدُوْرَا مُبَارُوْرَةٌ وَ بَارُوْرَا : لڑائی کے لئے مقابلہ پر نکلنا۔</p> <p>تَبْرُوْرَا : قضائے حاجت کے لئے میدان میں جانا۔</p> <p>تَبَارُوْرَا : مقابلہ پر نکل کر لڑنا۔</p> <p>اِسْتَبْرُوْرَهُ : نکالنا۔</p> <p>أَلْبُرَازُ : ہارز کا صدر۔ آدمی کا پانچا نہ۔</p> <p>أَلْبُرَازُ : درختوں سے خالی کشادہ میدان۔ (اس کو قضائے حاجت کے لئے بطور کنایہ کے استعمال کرتے ہیں)</p> <p>المُبْرُوْرُوْ وَ المَبْرُوْرُوْ : قضائے حاجت کی جگہ۔</p> <p>ذَهَبُ (البُرْيُوْرُ) : خالص سونا۔</p> <p>السُّوْرُوْخُ : دو چیزوں کے درمیان کی روک۔</p> <p>مَرْنَةُ : وقت سے دوبارہ اٹھنے تک کا زمانہ۔ ج السُّوْرَاخُ : بُرَاخُ الْاِيْمَانُ : ایمان کی ابتداء اور آخر کے درمیان کی حالت۔ یا</p>	<p>کرتا۔ اَبْرُوْرَهُ المرضُ : کمزور کر دینا۔</p> <p>تَبْرُوْرَهُ : سختک چاہنا۔ کہا جاتا ہے "نَزَلَ فِي السَّمَاءِ بِبُرْدٍ" وہ سختک حاصل کرنے کے لئے پانی میں اُترا۔</p> <p>تَبْرَاذُ : کسی کام میں سست ہو جانا۔ سختک ظاہر کرنا۔</p> <p>اِبْرُوْرَهُ : سختک پانی سے غسل کرنا۔</p> <p>اِسْتَبْرُوْرَهُ : سختک پانا۔ اِسْتَبْرُوْرَهُ عَلَيْهِ لِسَانُهُ : اس نے اس پر زبان درازی کی۔</p> <p>البُرْدُ : سروی۔ نیند۔</p> <p>البُرْدَانُ وَ الْاَبْرُوْرَانُ : صبح شام البُرْدُ : اول۔</p> <p>البُرْدَةُ : ایک اول۔ بدبشمی۔</p> <p>البُرْدُ : سرمہ جس سے آنکھ کو سختک پہنچے۔</p> <p>شَوْبُ بُرْدُوْرَهُ : وہ کپڑا جس کی درزا بھری ہوئی ہو۔</p> <p>البُرْدُ : پانی میں ترکی ہوئی روٹی۔</p> <p>البُرْدُ : دھاری دار کپڑا۔ ج بُرْدُوْرَهُ وَ اَبْرُوْرَهُ وَ اَبْرُوْرَهُ : کہا جاتا ہے "وَقَعَ بَيْنَهُمْ قَلْبًا بُرْدُ يَسْمَانِيَّةٍ" یعنی چادریں ان کے درمیان پھینیں یعنی سب آپس میں جھگڑے۔</p> <p>البُرْدُ : کالا کھل۔ واحد بُرْدَةٌ ج بُرْدُ</p> <p>البُرْدِيُّ : ایک قسم کا پودہ جس کی چھال کو قدامہ مصر کتابت کے لئے استعمال کرتے تھے۔</p> <p>البُرْدِيُّ : ایک قسم کی عمدہ کھجور۔</p> <p>البُرْدَاذَةُ : برتی کرتے ہوئے لوہے وغیرہ سے جو کچھ گڑے۔</p> <p>البُرْدَاءُ : جاڑا بخار۔</p> <p>البُرْدَاذَةُ : پانی سختک کرنے کا برتن۔</p> <p>البُرْدِيُّ : قاصد۔ ج بُرْدُ : تقریباً بارہ میل کی مسافت۔ ذاک خانہ۔</p> <p>السَّوْرَادُ : فَا - عَيْشُ بَارُوْرَهُ : خوشگوار زندگی۔</p> <p>"عَنْبِسْمَةُ بَارُوْرَهُ" بغیر جنگ اور مشقت کے حاصل کی ہوئی نینت۔ حُجَّةُ بَارُوْرَهُ : کمزور دلیل۔ المُرْهَفَاتُ البُرُوْرَادُ : تیز کانٹے والی تلوار۔</p> <p>الابْرُوْرَةُ : چیتا۔ ج اَبَارِدُ مَوْنَتُ الْاَبْرُوْرَةُ</p>
---	---	---

<p>بُرْعَتُ: الْمَمْكَانُ: بہت پسوں والا ہونا۔ البُرْعُوثُ: پسو۔ ج بُرْعَاغِيثُ بُرْعُوثُ الْبَحْرِ: جھینگا۔ الْبُرْعُلُ وَالْبُرْعُلُ: سخت چھنی ہوئی گندم۔ البُرْعُوزُ وَالْبُرْعُوزُ وَالْبُرْعَازُ: گائے یا تیل کا بچہ۔ ج بُرْعَاغِزُ وَبُرْعَاغِزُ۔ البُرْعَشُ: چھمر۔ واحد (بُرْعَشَةٌ) البُرْعِشِيُّ وَالْبُرْعِشِيُّ: بیچ والی کیل۔ ج بُرْعَاغِشِي: فصیح عربی لولب ہے۔ البُرْعُفِيسُ: ارغوانی رنگ۔ ارغوانی رنگ سے رنگا ہوا کپڑا۔ بُرْقُ (ن) بُرْقًا وَبُرُوقًا وَبُرْقَانًا وَبُرَيْقًا: البُرْقُ: ظاہر ہونا..... الشَّيْءُ: چمکانا۔ روشن ہونا..... السَّمَاءُ: چمکتی ہوئی بجلی والا ہونا۔ الرَّجُلُ: دھمکانا۔ بُرْقَتْ (ن) بُرْقًا وَبُرْقَتْ وَأَبْرَقَتْ: الْمَرْأَةُ: آراستہ ہونا۔ بُرُقُ (س) بُرْقًا: تھیر ہونا۔ چند ہیاجانا۔ خیرہ چشم ہونا۔ بُرْقَةٌ: آراستہ کرنا۔ بُرُقُ عَيْنَيْهِ وَبَعَيْنَيْهِ: آنکھ پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا۔ أَبْرُقُ: برقی زدہ ہونا۔ دھمکانا۔ دور کا سفر کرنا بِسْنَفِهِ: پیکانا..... عَنِ وَجْهِهِ: بنانا۔ أَبْرَقَتِ السَّمَاءُ: چمکتی ہوئی بجلی والا ہونا۔ الْبُرْقُ: بجلی ج بُرُوقُ:..... کہا جاتا ہے ”بُرْقُ خَلْبٍ وَبُرْقُ خَلْبٍ وَبُرْقُ الْخَلْبِ“ ہے بارش کی بجلی۔ الْبَارِقَةُ: بجلی والا بادل۔ تلوار میں سَحَابَةٌ (بِرَاقَةٍ) بجلی والی بدلی۔ الْبُرْقَةُ: دہشت۔ خوف۔ البُرْقُ: گھبراہٹ۔ دہشت۔ بھیڑ کا بچہ۔ ج أَبْرَاقُ وَبُرْقَانُ۔ الثُّرُقُ: گوہ۔ رَجُلٌ (بُرُوقٌ): بزدل۔ الْبُرُقَةُ ج بُرُقُ وَالْأَبْرُقُ ج أَبْرَاقُ: سخت ترین زمین جس میں ریت گارا پتھر ہو۔ اس کی تغیر (أَبْرُقُ) ہے۔ الأَبْرُقُ: سیاہ سفید</p>	<p>تنگ دست۔ السُّبْرُطَسُ وَالْمُبْرُطَسُ: بامخ اور خریدار کے درمیان دلال۔ السُّبْرُطَسُ: کرایہ پر گھوڑوں اور گدھوں کو چلانے والا۔ البُرْطَاشُ: پتھر کی چوکھٹ۔ فصیح عربی الأَشْكُفَةُ ہے۔ بَرَطْلُهُ بَرَطْلَةٌ: رشوت دینا۔ تَبْرَطْلُ: رشوت لینا۔ الأَبْرَطْلُ: ٹوپی۔ الأَبْرَطِيلُ: رشوت۔ لسا پتھر ج بُرَاطِيلُ بَرَطْمٌ: اللَّيْلُ: تاریک ہونا۔ الرَّجُلُ: غصہ کی وجہ سے ہونٹ لگانا (.....) و تَبْرَطْمٌ: غصہ سے پھولنا۔ البُرْطَامُ وَالْبُرْطَامُ: موٹے ہونٹ والا۔ بَرُوعٌ (ن) وَبُرُوعٌ (س) وَبُرُوعٌ (ك) بَرَاعَةٌ وَبُرُوعًا: علم یا فضیلت یا جمال میں کامل ہونا۔ صفت (بارع) بَرَعَهُ: علم یا فضیلت یا جمال میں غالب ہونا۔ بَرَعُ الْعَجَلِ: پہاڑ پر چڑھنا۔ تَبْرَعٌ بِالْعَطَاءِ: صدقہ کرنا۔ تبرع کرنا۔ التَّبْرِيعُ: عقل و جمال میں کامل۔ بُرُقُ بَرِيعٌ: دور سے چمکنے والی بجلی۔ البُرْعُثُ: حلقہ دہر۔ البُرْعِيسُ وَالْبُرْعِيسُ: بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔ البُرْعِيسُ: بختیوں پر صبر کرنے والا۔ تَبْرَعَصُ الرَّجُلِ: کسی کے نیچے تملانا۔ تَبْرَعَصَتِ الْحَيَّةُ: کندلی مارنا۔ البُرْعُلُ: بھوکا بچہ۔ بَرَعِمٌ بَرَعِمَةٌ وَتَبْرَعِمٌ: الشَّجَرُ: شگوفہ لگانا۔ البُرْعِمُ وَالْبُرْعِمَةُ ج بَرَاعِمٌ (والبُرْعُومُ و البُرْعُومَةُ) ج بَرَاعِمٌ: شگوفہ یا شگفتہ۔ پھل کا غلاف۔ بَرِغٌ (س) تَبْرَغًا: ناز و نعمت سے زندگی بسر کرنا۔ البُرُغُ: لعاب۔</p>	<p>البُرْشَانُ: گوند۔ لپٹن۔ بُرُضٌ: (س) بُرْضًا: برص کی بیماری والا ہونا۔ صفت (أَبْرُضٌ): موٹا بُرْضَاءُ: ج بُرْضٌ۔ أَبْرُضٌ بُرْضَاءُ: مختلف جگہوں سے چری ہوئی زمین۔ حَيَّةٌ بُرْضَاءُ: سفید داغوں والا سانپ۔ أَبْرُضٌ: برص کی بیماری میں مبتلا کر دینا۔ تَبْرُضٌ: الأَبْرُضُ: چرا کر بالکل صاف کر دینا۔ البُرْضُ: ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے جلد سفید ہو جاتی ہے اور سخت تکلیف دہ خارش پیدا ہو جاتی ہے۔ سَامٌ أَبْرُضٌ: چھپکلی۔ تشبیہ کی صورت میں ”هَذَا سَامٌ أَبْرُضٌ“ اور حج کی صورت میں ”هَذَا سَامٌ أَبْرُضٌ“ وَأَبْرُضٌ“ بولتے ہیں۔ أَبُو بُرَيْضٍ: چھپکلی۔ الأَبْرُضُ: چاند۔ البُرْضُومُ: کپڑے کا وہ ٹکڑا جس سے شیشی بوتل وغیرہ کے سر کو بندھیں۔ بُرْضٌ (ن) بُرْضًا: الْمَاءُ مِنَ الْعَيْنِ: تھوڑا لگانا۔ بُرْضٌ (ن) بُرُوضًا: النَّبَاتُ: اکھوا لگانا۔ بُرْضٌ وَابْرُضٌ: الْمَمْكَانُ: بہت اکھوا والی ہونا۔ تَبْرُضٌ: تھوڑی چیز پر زندگی گزارنا۔ الشَّيْءُ: تھوڑا تھوڑا لینا..... الْمَاءُ: چوسنا..... الأَبْرُضُ: روئیدگی ظاہر ہونا۔ البُرْضُ: تھوڑا نَبْرَاضٌ وَبُرُوضٌ وَ ابْرَاضٌ..... کہا جاتا ہے ”هَذَا بُرْضٌ مِنْ عَدَّةٍ“ یہ بہت میں سے تھوڑا ہے۔ الْبُرْضَةُ: زمین جس میں کچھ نہ اگے۔ البَارِضُ: اکھوا۔ عَيْنٌ (بُرُوضٌ): تھوڑے پانی والا چشمہ۔ البِرَاضُ وَالْبِرَاضَةُ: تھوڑا۔ السُّبْرُوضُ: کثرت داد و دہش کی وجہ سے</p>
--	---	--

رنگ والا۔

البُرَاق: اس جانور کا نام ہے جس پر نبی کریم ﷺ شب معراج میں سوار ہوئے تھے۔ اس جانور کا قد گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔
التَّبَارِيقُ: تھوڑا سا تیل یا گھی جو کھانے میں ڈالا جائے۔

التُّوبُ: آلودہ ہونا۔
مَبْرُوقٌ: صبح طلوع ہونے کی جگہ۔
مَبَارِقٌ وَ مَبَارِيقٌ: التُّوبُ: آلودہ ہونا۔
بُرُوقُشَةُ بَرَقَ شَةً: مختلف رنگوں سے آراستہ کرنا۔
بُرُوقٌ بَرَقَ وَ تَبَرَّقَ: وَ جُھُفَةٌ: بد صورت ہونا۔
فَسَى الْكَلَامِ: بے سرسیر کی باتیں کرنا۔

تَبَرَّقَ شٌ: مختلف رنگوں سے آراستہ ہونا۔
الْبُرُقُشُ: ایک لطیف آواز اور رنگین پروں والا پرندہ۔

ابُو بُرَاقِشٍ: ایک چھوٹا سا پرندہ جس کے پر کا بالائی حصہ خاکی اور پیچ کا حصہ سرخ اور نیچے کا سیاہ ہوتا ہے اور جب وہ پر نکالتا ہے تو مختلف رنگ دکھائی دیتے ہیں۔ مجازاً اکتلون المران کو کہتے ہیں۔

الْبُرُقُوشُ: پرانا جوتا۔
بُرُقُطٌ: قریب قریب قدم سے چلنا۔ مڑ مڑ کر دیکھنا۔
الْكَلَامُ: بے ترتیب بولنا۔

بُرُقَعَهَا: برقع اڑھنا۔
تَبَرَّقَعَتْ: برقع اڑھنا۔
الْبُرُقُوعُ: برقع۔
بُرُقُلٌ: جھوٹ بولنا۔

الْبُرُقُلَةُ: قول جو عمل سے خالی ہو۔
الْبُرُقِيلُ: ایک قدیم قلعہ شکن آلہ۔

الْبُرُوقُ: لمبے تے والا زیادہ پھولوں والا پودا تربت کے لئے استعمال ہوتا ہے بکری اس کو نہیں کھاتی۔

الْبُرُوقُوقُ: شفتالو۔
بِرْك: (ن) بُرُوكَا وَ تَبَرَّاكَا وَ بُرُوكٌ وَ

اِسْتَبْرَكَ: البِعِيزُ: بیٹھنا۔ بُرُوكٌ بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔

بُرُوكٌ فِيهِ: برکت کی دعا کرنا۔
بَارَكَ: الرَّجُلُ: برکت کی دعا کرنا۔ راضی ہونا۔ بَارَكَ الْمَلِكُ لَكَ وَ فَيْكَ وَ عَلَيْكَ وَ بَارَكَكَ: برکت دینا۔ بولتے ہیں "بَارَكَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَ آلِهِمْ" یعنی ان کی عزت و عظمت جو تو نے انہیں بخشی ہے برقرار رکھ اور نبوک فینک اس سائل سے کہتے ہیں جس کو دعوت کرنا منظور ہوتا ہے۔
أَبْرَكَةٌ: اونٹ کو بٹھانا۔

تَبَرَّكَ: بہ برکت حاصل کرنا۔
تَبَارَكَ: بہ: نیک شگون لینا۔ اللہ: مقدس ہونا۔

اِسْتَبْرَكَ: الْقَوْمُ: گھنٹوں کے بل بیٹھ کر جنگ کرنا۔ اِسْتَبْرَكَوا فِي الْعَدُوِّ: تیز دوڑنے کی کوشش کرنا۔ فَلَانًا: پچھاڑنا اور اپنے سینہ کے نیچے دبالیانا۔
فِي عَزْبِهِ وَ عَلَيْهِ: گالی دینا۔ اہانت کرنا۔

اِسْتَبْرَكَ: برکت کی قال لینا۔
الْبُرُوكُ: سینہ۔ اونٹوں کا گلہ۔ واحد (بارک) مَوْنُوتٌ (بارکة) نَبْرُوكٌ۔
الْبُرُوكَةُ: زیادتی۔ بہتات۔ نیک جتنی۔ سُبُو الْبُرُوكَةِ: اونٹ کے بیٹھنے کی بیت۔ پانی جمع ہونے کی جگہ۔ حوض۔ نَبْرُوكٌ: دوودہ دینے والی بکری۔ نَبْرُوكَاتٌ۔

الْبُرُوكَةُ: ایک چھوٹا سفید آبی پرندہ۔ چینی والے کی اجرت۔ نَبْرُوكٌ وَ اَنْبَرَاكٌ وَ بُرْكَانٌ۔

الْبُرُوكُ: اونٹ۔
الْبَارُوكُ: بزدل۔ کابوس۔
الْبُرَاكُ: پیائی لینے والا۔ پینے والا۔

الْمَبْرُوكُ: اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "لَيْسَ بِفُلَانٍ مَبْرُوكٌ جَمَلٌ" یعنی فلاں کے پاس کچھ نہیں۔
الْبُرُوكَةُ: مادہ۔ سہی۔

بِرْكِيَّةٌ: لمبے پیوں سیدھے تے والا

پودا۔

الْبُرُوكَا وَ الْمُبْرَكَا: پرکار (جدید)
الْبُرُوكَا: آتش فشاں پہاڑ۔ جو الاکھی (جدید) بُرُوكَةُ: کاٹا۔ پچھاڑنا۔ بُرُوكٌ الْقُرْسُ: چاروں پیروں پر کھڑا ہونا اور گھنٹوں کے بل گر پڑنا۔

بُرُوكٌ وَ تَبَرُّوكٌ: الرَّجُلُ: چوڑے بل گرنا۔
الْبُرُوكُ: پست قدم۔
الْبُرُوكَانُ: پارلیمانی نظام۔
جُبُوعٌ (مَبْرُوكُوعٌ): سخت بھوک۔

بُرُومٌ (ن) بُرُومًا وَ بُرُومٌ: الْحَبْلُ: دو لڑیوں کو بننا۔ صفت مفعولی (مَبْرُومٌ وَ بُرُومٌ): اَلْأَمْرُ: مضبوط کرنا۔

بُرُومٌ (س) بُرُومًا: تنگ دل ہونا۔ زنج ہونا۔
يَبْرُوكُهُ: دلیل کا نہ ماننا۔

أَبْرُومٌ: الْحَبْلُ: بمعنی بُرُومُ الْحَبْلِ: ہ زنج کرنا۔ عَلَيْهِ فِي الْجِدَالِ: خاموش کرنے کے ارادے سے بحث کئے جانا۔

بُرُومٌ: زنج ہونا۔
اِسْتَبْرَمَ: الْحَبْلُ: رتی کا بٹ جانا۔

الْبُرُومُ: درخت غصاء کا پھل (دیکھئے غصاء) بسجل لیسیم: وہ شخص جو بھل کی وجہ سے جوئے میں شریک نہ ہو۔ نَبْرَامٌ۔

الْبُرُومَةُ: پتھر کی ہانڈی۔ نَبْرُومٌ وَ بُرَامٌ: الْبُرُومُ: ہدا خلاق لوگ۔

الْبُرَامُ: چمچڑی۔ نَبْرَامَةٌ: الْبُرَامُ: رتی بٹنے والا۔

الْبُرُومِ وَ الْبُرَامِ: دھاگا۔ ہر وہ چیز جو بٹی جائے۔ بٹی ہوئی رتی۔ الْبُرُومُ: اَلْبُرُومَةُ: سوراخ کرنے کا اوزار۔ برما۔

الْمَبْرُومُ: تکلہ۔ نَبْرَامٌ۔
الْبُرُومُ مِنَ الذَّهَبِ الْمَبْرُومُ: اصل سونے (۲۳ قیراط تک) کے ٹکڑے۔

الْمَبْرُومُ: منع تضاء۔ مَبْرُومٌ: اُلْ فِصْلَةُ: اَلْبُرُومَا: حلوہ کی ایک قسم۔ (ترکی لفظ)۔

الْبُرُومِيلُ: پوپ۔ نَبْرَامِيلُ: (جدید)
الْبُرُومَاعُ: میزانیہ۔ بجت (جدید)

البزور: کتان یا روئی کے کپڑے۔ ہتھیار۔ بجز
بزور۔

البزور: کپڑے۔ ہتھیار۔ بیست۔

البزور: پارچہ فروش۔

البزور: پارچہ فروش۔

البزور: پاسبورٹ (جدید) پروانہ
راہداری۔ اس کے لئے فصیح لفظ البزور
ہے۔

بزور: تیز چلنا۔ سخت ہانکنا۔ بھاگنا۔ بہت
حرکت کرنا۔

البزور: بھٹی کے سر۔ پرلوے کی جو فدا
سلاخ۔

بزورج (ن) بزورج: فخر کرنے میں مقابلہ کرنا
..... علی فلانا: بجز کا۔ اکسا۔ برا بھینٹ
کرنا۔

بزورج: آراستہ کرنا۔ خوبصورت بنانا۔

بازورج: فخر کرنے میں مقابلہ کرنا۔

بنازورج: باہم فخر کرنا۔

بزورج (س) بزورج: نکلے ہوئے سینہ اور دھنسی
ہوئی پیٹھ والا ہونا۔ صفت (بزورج) مؤنث
(بزورج) بزورج۔

بزورج (ف) بزورج: ظہرہ بالعضاء: اٹھی
سے پشت پر مارنا..... فلانا: زسوا کرنا۔

بزورج: عن الأضر: پیچھے ہٹنا۔ نکلے ہوئے
سینہ اور دھنسی ہوئی پیٹھ والے کی طرح چلنا یا
بھینٹنا۔

بنازورج: المرأة: بڑے سرین والی ہونا۔

بزورج: لہ: فروتنی کرنا۔

بزورج (ض) بزورج: الخوب: ہونا۔ بیچ چھیننا
(..... و بزورج) المقذور: مسالہ النانہ۔ بزورج
الاناء: بھرتا۔ کہتے ہیں "فلان بزورج كلامه
و توبلہ" فلاں نے اپنی گفتگو میں تمک مرچ
ملا یا

البزور: بیچ۔ حتم۔ واحد (بزورج) بزورج:
مسالہ۔ بزورج: انبار بیچنا کہتے ہیں۔ "بیلی
لا یخفی علیہ انبار بیچ" یعنی جھ جیسے پر
تمہاری نہیں پوشیدہ نہیں رہ سکتیں۔ البزور:

البزور: بدبودار جسم سمندری پانیوں سے نکالا
جاتا ہے سرخ پینے والے مادے کی شکل میں
علامت BR۔

البزور: بدبودار جسم سمندری پانیوں سے نکالا
جاتا ہے سرخ پینے والے مادے کی شکل میں
علامت BR۔

البزور: بدبودار جسم سمندری پانیوں سے نکالا
جاتا ہے سرخ پینے والے مادے کی شکل میں
علامت BR۔

البزور: ہوا کی پیمائش کا آلہ۔
البزورق و البزورق: ایک قسم کی گھاس جو محض
بادل ہی سے سرسبز ہو جاتی ہے اور اسی وجہ
سے مثل ہے "انگور من بزورق" یعنی وہ
تھوڑی چیز کا بھی شکر یاد کرتا ہے۔

بزورق (ن) بزورق و بزورق: انباء۔ النافقہ: اونٹنی
کی ناک میں حلقہ ڈالنا۔

البزور: حلقہ (خواہ گلن ہو یا بالی یا پار زیب
بوری و بزورق و بزورق و بزورق: کہا جاتا ہے
"أعطتہ الدنيا بزورقها" یعنی دنیا اس کے
تاج میں آ گئی ہے۔

بزورق (ض) بزورق و بزورق: السہم
أو القلم: تیر یا قلم تراشنا۔ صفت معنوی (بزورق
و بزورق)

الشخص: ڈبلا کرنا۔ کمزور کرنا۔

بزاری: السرجل: آگے بڑھنے کی کوشش
کرنا۔ انزورق: فراق کی شرط پر صلح کرنا۔

بزورق: مٹی لگانا۔

بنازورق: باہم آگے بڑھنے میں مقابلہ کرنا۔

بزورق: لیسغورقہ: بھلائی کے درپے ہونا۔

بزورق: تراشا جانا..... لہ: پیش آنا۔

البزورق: مٹی۔

البزورق: پیدا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے
اسماء حسی میں سے ہے تیر کا تراشنے والا۔

البزورق: امثال عرب میں سے "أعطت السوس
بنازورقها": کمان تراشنے والے کو دو۔ یعنی کام
اس شخص کے سپرد کرو جو اس کی اہلیت رکھتا
ہو۔

البزورق و البزورق: تراشا۔ چھیلن۔

البزورق: مخلوق۔ بزورق یا
الابزورق و البزورق: سر کی بھوسی جو گنگھی کرتے
وقت گرے۔

البزورق و البزورق: المیزورق و المیزورق: چاقو۔
تراشنے کا اوزار۔

بزورق (ن) بزورق و بزورق: چھیننا۔ غالب ہونا
..... الشی منہ: زبردستی لے لینا۔

بزورق: منہ الشی: زبردستی چھین لینا۔

البزورق: منہ الشی: زبردستی چھین لینا۔

البزورق: ان شعراء کا مسلک جنہوں نے
رومانی گانوں کو اپنایا اور لفظی صفت کا پورا
اجتماع کیا۔

بزورق: بزورق پینانا۔

بزورق: بزورق پینانا۔

بزورق: وہ لمبی ٹوپی جو عرب میں پہنی جاتی
تھی۔ وہ لباس جس کا کچھ حصہ ٹوپی کی جگہ
کام دے۔

البزورق: ایک خاص علاقے کی ٹوپی۔
(بیٹ)

البزورق: انگریزی ٹوپی۔ بیٹ (ٹی کیپ)
البزورق: مٹی کا برتن۔ تراشا۔

بزورق (س) بزورق: بیماری کے بعد جسم کا اصلی
حالت پر آنا۔ صفت (بزورق) مؤنث (بزورق):

بزورق۔

بزورق: دلیل لانا۔

البزورق و البزورق: عرض۔ زمانے کا ایک
حصہ۔ بزورق و بزورق۔

البزورق: ہندوؤں کی ایک ذات..... مفرد
(بزورق)

بزورق: الشی و علیہ و عنہ: دلیل قائم
کرنا۔

بزورق: دلیل سے ثابت ہونا۔

البزورق: دلیل۔ بزورق۔

البزورق: چکنو (جدید) اس کے لئے فصیح لفظ
کھاف اور اطوار ہے۔

البزورق و البزورق: دعویٰ قائم باوجود بیماری اور
نقصان کے ادراک کے۔

البزورق و البزورق: معروف عیسائی مذہب
پر وٹ کو ماننے والا۔

البزورق و البزورق: بیدردن کا ذرہ۔

البزورق و البزورق: کام کرنے والا طبقہ (لاطینی
لفظ)

البزورق: بدبودار جسم سمندری پانیوں سے نکالا
جاتا ہے سرخ پینے والے مادے کی شکل میں
علامت BR۔

البزورق: بدبودار جسم سمندری پانیوں سے نکالا
جاتا ہے سرخ پینے والے مادے کی شکل میں
علامت BR۔

البزورق: بدبودار جسم سمندری پانیوں سے نکالا
جاتا ہے سرخ پینے والے مادے کی شکل میں
علامت BR۔

رینٹ

الْمَرْأَةُ (الْبُزْرَاءُ): بہت اولاد والی عورت۔

الْبُزْرَاءُ: بیج اور سالہ کا بیجے والا۔

الْبُزْرَاءُ: بیل کا بے۔ دھوبی کا تختہ (.....)

والبزور: دھوبی کی موگری۔

الْبُزْرَاءُ: باز پانے والا۔ کا شکار۔ ج بیازرة

(معرب)

بَزْعُ (ك) بَزَاعَةُ: الغلام: خوش طبع ذکی

اور چست ہونا۔ صفت (بَزِيع) مَوْنِث

(بَزِيعَةُ)

تَبَزَعُ: الغلام: چست و پھر تپتا ہونا۔ الشُّرُ:

بُزْرُوقَةُ کا بھڑکنا۔

الْبُزْرَاعُ: بغیر جھک کے گفتگو کرنے والا لڑکا

(.....) والْبُزْرَاعُ: من الغلمان: تیز خاطر۔

چرب زبان لڑکا۔ الْبُزْرَاعُ: شریف آدمی۔

بَزْعُثُ (ن) بَزْعَا و بَزْوَعَا: الشَّمْسُ:

ظُلُوعُ ہونا۔ بَزْعُ الْحَاجِمِ: شتر لگانا دھند:

خون بہانا۔

إِبْتِزَاعُ: السَّرْبِيعُ: فصل بہار کا شروع ہونا۔

نَجْوَمُ (بِزَاوَعُ): ظُلُوعُ ہونے والے

ستارے۔

الْمَبْتِزِعُ: اشتر۔

بِزْرَقُ (ن) بِيْزْرَقًا: تھوکانا..... الْأَرْضُ: یوتا۔

الْبِزْرَاقُ: تھوک۔

الْبِزْرَاقُ: ایک قسم کا گھونگا۔ واحد بِيْزْرَاقَةٌ

بَزُولُ (ن) بَسْزَلَا و بَسْزَلُ: الشَّيْءُ: سوراخ

کرنا۔ الشَّرَابُ: صاف کرنا۔ بَسْزُولُ الْأَمْرِ:

کسی کام کو کمرگزرتا۔ وَابَةٌ: کوئی نئی رائے پیش

کرنا کسی رائے پر جم جانا۔

بَزُولُ (ن) بَسْزُولًا: البعير: اونٹ کا جوان

ہونا..... نَابُ البعير: کچلی کا ٹھکانا۔ صفت مذکر

و مَوْنِثُ (بازِل) ج بَوَازِلُ و بَزُولُ و بَزُولُ۔

بَزُولُ و إِبْتِزُولُ: سوراخ ہونا۔

بَسْزُولُ و إِبْتِزُولُ: الخمر: شراب کے برتن

میں سوراخ کرنا..... المجدد: قسم سے خون

نیکنا۔

السِّقَاءُ: مشک کا چکنا.....

إِسْتَبْزُولُ: الشَّيْءُ: کھولنا..... الخمر: صاف

کرنا۔

الْبِزُولُ: تختی۔

الْبِزُولُ: ایک قسم کا پہاڑی بکرا۔

الْبِزَالُ: برما۔ سوراخ کرنے والا اوزار۔

الْبِزَالُ: شراب کے پینے کا سوراخ۔

الْبِزَالُ: اونٹ کی کچلیوں کا دانت۔ تجربہ کار

مرد۔ کہتے ہیں "رُحْمِي بِأَشْهَبُ بَزَائِلُ": وہ

دشوار معاملہ میں پھنس گیا۔

الْبِزْلَاءُ: بزی مہمیت۔ عمدہ رائے۔ کہا جاتا

ہے "إِسْرَاقَةُ بَزْلَاءُ الرِّأْيِ": عمدہ رائے

والی عورت۔ "و خَطَّةُ بَسْزَلَاءُ": صاف و

واضح طریق کار۔

الْبِسْزُولُ: شراب صاف کرنے کا آلہ۔

سوراخ کرنے والا اوزار۔

رَجُلٌ (بِزْلَةٌ و بِيْزْلَةٌ): مرد کو تازہ قامت۔

بَزْمٌ: (ن ش) بِيْزْمًا: عَلَيْهِ: اگلے دستوں

سنے کا ٹٹا..... بِالشَّيْءِ: اٹھانا..... فَلَا نَأْفُو بِهِ:

چھین لینا..... النَّاقَةُ: انگوٹھے اور شہادت کی

انگلی سے دو ہونا..... وَسِر القوس: کمان کے

تانت کو انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے پکڑ

کر تیر چلانا۔

الْبِزْرِيمُ: ساگ یا ترکاری وغیرہ کا مٹھا

باندھنے کے لئے پتے یا چھلکا۔

المبزم: دانت۔

بِزْمِخُ بَزْمِخَةٌ: تکبر کرنا۔

بِزَا (ن) بِيْزُوا: عَلَيْهِ: دراز دتی کرنا بَزَاہ و

إِبْتِزَاہ و أَبْزَى بِهِ: غالب آنا بَزَا و بَزَى

بِيْزَى بَزَا و أَبْزَى إِبْتِزَاہً: لنگے ہوئے سینے

اور دھکی ہوئی پیٹھ والا ہونا صفت (أَبْزَى)

مَوْنِثُ بَزْوَاءُ

تَبْزَاؤِي: باز کے مشابہ ہونا۔ سرین اٹھا کر

بلا تے ہوئے چلنا۔

البزؤ: مثل و نظیر۔

الْبِزْيُ: دودھ پیتا بچہ۔ کہا جاتا ہے "

هُوَ بِيْزِيٌّ": وہ میرا دودھ شریک بھائی ہے۔

الْبِزْءُ: بیک۔

الباز و البازي: باز۔

بَسُّ (ن) بَسًّا و أَبْسٌ: الأبل: آہستہ

آہستہ ہانکنا اور بس بس کہنا۔ "بَسُّ الصَّمَالِ

فِي الصِّبْلَادِ": ملک میں مال کا پھیلا دینا۔

بَسُّ السَّوْفِيَّةِ: گھی یا زیتون کے تیل میں

ستولانا..... الْقَوْمُ عَنَهُ و تَكَرَّأَتْ: "وَأَبْسُ

بِالنَّاقَةِ": دودھ پینے کے لئے چکارنا۔

إِبْسٌ: زَمِينُ پر پانی کا بہنا۔ الگ بننا۔

الْبَسُّ و البسُّ: بلا۔ کوشش۔ ج بَسَّاسُ

البسبیس: شجور ا کھانا۔

الْبَسْبِسَةُ: گھی یا زیتون کے تیل میں ملا ہوا

ستویا آنا۔

الْبَسْبَسُوسُ: اونٹنی جو بغیر بس بس کہے ہوئے

دودھ نہ دے۔ ج بَسْبَسٌ

بَسُّ بَسُّ و بَسُّ بَسُّ: بکریوں اونٹوں

بایوں کے بلانے یا ڈانٹنے کے لئے کلہ۔

أَبْسُوسُ: جاس بن مرہ البھری کی خال جس

کی وجہ سے بنی بکر اور بنی تغلب کے درمیان

مشہور جنگیں ہوئیں اور اس کا نام مٹھوں سمجھا

جاتا ہے۔

بَسْبَسٌ: بالنغم أو لابل: بس بس کہنے کے

بلا نا۔ بہ: کسی سے بس کہنا۔

البسبیس: بیابان بے گھاس پانی والی زمین۔

ج بَسْبَسٌ: نَرَهَاتُ البَسْبَسِ و

النَرَهَاتُ البَسْبَسِ: جمبوٹی اور باطل

باتیں۔

الْبَسْبَانُ: باغ۔ ج بَسْبَانِ (جدید)

الْبَسْبَانِي: باغ والا۔ باغبان۔ البَسْبَانِي مِنَ

النبات: لگائے ہوئے پودے۔

بَسْبَسِيْنَةٌ: سال کے آخر میں نصاریٰ کے

ہاں جو تحائف پیش کئے جاتے ہیں۔

بَسْتُ (ن) بَسْتًا: چلنا۔ کشادہ قدم رکھنا۔

دوڑنے میں سہتہ کرنا۔

البسبِقُ: خادم۔

الْبَسْبُوقَةُ: مٹی کا مارتان۔

بَسْرَه (ن) بَسْرًا: جلدی کرنا۔ مغلوب کرنا

(.....) وَأَبْسَرُ القَرْحَةَ: نچوڑ کر باندھنا.....

چاپوسی کرنا۔	البصائر: خوشخبری۔ ہر چیز کی ابتداء۔	تَبَشِيرٌ: یہ کسی سے کشادہ روئی سے پیش آتا۔
بَصْرٌ (ک) بَصْرٌ (س) بَصْرًا و بَصَارَةٌ و بہ: جانا۔ دیکھنا۔	البصرة: کھال کا اوپر کا حصہ۔ ساگ گھاس۔	البصيرة: چھوٹا صندوق۔
بَصْرٌ (ن) بَصْرًا الشئ: کاننا۔	بَصْرٌ: البصيرة: خوشخبری۔	بَشْرٌ (ن) بَشْرًا: الجلد: چمڑا چھیل دینا
بَصْرٌ: الأمر: پہنچوانا۔ معلوم کرنا۔	البصيرات: بارش کی امید لانے والی ہوا میں۔	الشارب: مونچھ مونڈ کر کھال ظاہر کر دینا۔
وَبَصْرٌ: بصرہ میں آنا۔ الجرو: پلے کا آکھیں کھولنا۔	بَصْعٌ (س) بَصْعًا و بَصَاعَةً: الشئ: بدمزہ ہونا۔	الجرو الأرض: ٹڈی کا سب کچھ کھا جانا۔
بَصْرٌ: الشئ: دور سے جھانک کر دیکھنا۔	بَصْعٌ: بے مزہ ہونا۔ بصورت ہونا۔	بَشْرٌ (ض) و بَشْرٌ (س) و ابشرو و استبشرو: خوش ہونا۔ ابشرت الأرض: اٹھواٹکاننا۔
دیکھنے میں مقابلہ کرنا۔	بَصْعٌ: بے مزہ ہونا۔ بصورت ہونا۔	بَشْرٌ: خوش کرنا۔ خوشخبری دینا۔
ابصْرہ: دیکھنا۔ بیابانا۔ الرجل: بصرہ میں آنا۔ ابصر الطريق: واضح نمایاں ہونا۔	بَصْعٌ: بے مزہ ہونا۔ بصورت ہونا۔	بَشْرٌ: خوش کرنا۔ خوشخبری دینا۔
بَصْرٌ: الشئ: غور سے دیکھنا۔ فی الشئ: سوچنا۔ غور کرنا۔	بَصْعٌ: بے مزہ ہونا۔ بصورت ہونا۔	بَشْرٌ: خوش کرنا۔ خوشخبری دینا۔
تَبَصَّرُوا: کسی چیز کو پہلے دیکھ لینے میں مقابلہ کرنا۔	بَصْعٌ: بے مزہ ہونا۔ بصورت ہونا۔	بَشْرٌ: خوش کرنا۔ خوشخبری دینا۔
ابصْرہ: اچھی طرح دیکھنا۔ فیہ: سوچنا۔ غور کرنا۔	بَصْعٌ: بے مزہ ہونا۔ بصورت ہونا۔	بَشْرٌ: خوش کرنا۔ خوشخبری دینا۔
بَصْرٌ: دیکھنے کی قوت۔ آکھ۔ علم۔ ج ابصار: کہا جاتا ہے "اتقہ بین سمع الأرض و بصرہا" میں اس کے پاس اس وقت پہنچا جبکہ کوئی نہیں تھا صرف زمین ہی دیکھنے والی سننے والی تھی۔	بَصْعٌ: بے مزہ ہونا۔ بصورت ہونا۔	بَشْرٌ: خوش کرنا۔ خوشخبری دینا۔
البصرة: ایک شہر کا نام جو باہم طے جلے دریائے دجلہ و فرات کے مغربی کنارہ پر واقع ہے۔	بَصْعٌ: بے مزہ ہونا۔ بصورت ہونا۔	بَشْرٌ: خوش کرنا۔ خوشخبری دینا۔
البصرة: بصرہ و کوفہ۔ والبصرة: سخت زمین۔ لیس دار مٹی جس میں کنکریاں بھی ہوں۔ بصار: بصیر: داننا۔ بصراء البصيرة: عقل۔ زیرکی۔ دانائی۔ عبرت۔	بَصْعٌ: بے مزہ ہونا۔ بصورت ہونا۔	بَشْرٌ: خوش کرنا۔ خوشخبری دینا۔
شاید۔ حجت۔ کہا جاتا ہے "جوارحہ بصيرة عليه" اس کے اعضاء اس کے اوپر گواہ ہیں۔ "و قرآنة ذات بصيرة" سچی فراست۔	بَصْعٌ: بے مزہ ہونا۔ بصورت ہونا۔	بَشْرٌ: خوش کرنا۔ خوشخبری دینا۔
البصيرة: آکھ۔	بَصْعٌ: بے مزہ ہونا۔ بصورت ہونا۔	بَشْرٌ: خوش کرنا۔ خوشخبری دینا۔
البصيرة: آکھ۔	بَصْعٌ: بے مزہ ہونا۔ بصورت ہونا۔	بَشْرٌ: خوش کرنا۔ خوشخبری دینا۔
البصيرة: آکھ۔	بَصْعٌ: بے مزہ ہونا۔ بصورت ہونا۔	بَشْرٌ: خوش کرنا۔ خوشخبری دینا۔
البصيرة: آکھ۔	بَصْعٌ: بے مزہ ہونا۔ بصورت ہونا۔	بَشْرٌ: خوش کرنا۔ خوشخبری دینا۔
البصيرة: آکھ۔	بَصْعٌ: بے مزہ ہونا۔ بصورت ہونا۔	بَشْرٌ: خوش کرنا۔ خوشخبری دینا۔
البصيرة: آکھ۔	بَصْعٌ: بے مزہ ہونا۔ بصورت ہونا۔	بَشْرٌ: خوش کرنا۔ خوشخبری دینا۔
البصيرة: آکھ۔	بَصْعٌ: بے مزہ ہونا۔ بصورت ہونا۔	بَشْرٌ: خوش کرنا۔ خوشخبری دینا۔
البصيرة: آکھ۔	بَصْعٌ: بے مزہ ہونا۔ بصورت ہونا۔	بَشْرٌ: خوش کرنا۔ خوشخبری دینا۔
البصيرة: آکھ۔	بَصْعٌ: بے مزہ ہونا۔ بصورت ہونا۔	بَشْرٌ: خوش کرنا۔ خوشخبری دینا۔
البصيرة: آکھ۔	بَصْعٌ: بے مزہ ہونا۔ بصورت ہونا۔	بَشْرٌ: خوش کرنا۔ خوشخبری دینا۔
البصيرة: آکھ۔	بَصْعٌ: بے مزہ ہونا۔ بصورت ہونا۔	بَشْرٌ: خوش کرنا۔ خوشخبری دینا۔
البصيرة: آکھ۔	بَصْعٌ: بے مزہ ہونا۔ بصورت ہونا۔	بَشْرٌ: خوش کرنا۔ خوشخبری دینا۔
البصيرة: آکھ۔	بَصْعٌ: بے مزہ ہونا۔ بصورت ہونا۔	بَشْرٌ: خوش کرنا۔ خوشخبری دینا۔
البصيرة: آکھ۔	بَصْعٌ: بے مزہ ہونا۔ بصورت ہونا۔	بَشْرٌ: خوش کرنا۔ خوشخبری دینا۔
البصيرة: آکھ۔	بَصْعٌ: بے مزہ ہونا۔ بصورت ہونا۔	بَشْرٌ: خوش کرنا۔ خوشخبری دینا۔
البصيرة: آکھ۔	بَصْعٌ: بے مزہ ہونا۔ بصورت ہونا۔	بَشْرٌ: خوش کرنا۔ خوشخبری دینا۔
البصيرة: آکھ۔	بَصْعٌ: بے مزہ ہونا۔ بصورت ہونا۔	بَشْرٌ: خوش کرنا۔ خوشخبری دینا۔

<p>من فلان: تھوڑا تھوڑا کر کے وصول کرنا۔ بَسْرٌ (بَسْرُوضٌ): کم پانی والا کنواں۔ ج بِضَاضٌ البِضْضُ و البِضَاضَةُ: تھوڑا پانی۔ البِضُّ: موناٹی کے ساتھ نرم جسم اور پتلی کھال والا۔ مَوْنُثٌ بِضَّةٌ. البِضُّ و البِضَّةُ: کھانا دودھ۔ البِضِيضَةُ: جو کچھ کسی کے قبضہ میں ہو۔ کہا جاتا ہے "أَخْرَجْتُ لَهُ بِضِيضِي" میں نے اپنی تمام ملوکہ چیزیں اس سے دے دیں۔ السُّحْرَةُ: رائیگاں۔ اور اسی سے ہے۔ "ذَهَبَ ذَمُّهُ بِضْرًا مِضْرًا" اس کا خون رائیگاں گیا۔ بِضَعٌ (ف) بِضْعًا وَبِضْعٌ. الشَّيْءُ: کاٹنا چیرنا۔ نَشْرٌ لَگاتا۔ بِضَعٌ (ف) بِضُوعًا. الْكَلَامُ: سمجھنا۔ الْكَلَامُ: واضح ہونا۔ من فلان: اکتا جانا۔ تک دل ہونا۔ أَبْضَعُهُ. الْكَلَامُ: واضح طور سے بیان کرنا۔ أَبْضَعُ الشَّيْءَ: سرمایہ بنانا۔ المرأة: نکاح کرنا۔ الماءُ فَلَائًا: سیراب کرنا۔ تَبْضَعُ وَاسْتَبْضَعُ: سرمایہ لینا۔ الشَّيْءُ: سرمایہ بنانا۔ تَبْضَعُ العَرَقُ: پینہ کا تھوڑا تھوڑا بہنا۔ اسْتَبْضَعُ الرَّجُلُ الشَّيْءَ: کسی کے لئے سرمایہ بنانا۔ أَبْضَعُ: کتنا۔ چیرا جانا۔ شُكَّافٌ دیا جانا۔ بِاضِعٌ مِبْاضِعَةٌ وَبِضَاعًا. الْمَرْأَةُ: جماع کرنا۔ أَبْضَاعُ: لوگوں کے سامان کو اٹھانے والا شمشیر ہواں۔ أَلْمِضْعُ: نَشْرٌ۔ مَبْضَاعٌ أَلَّهُ بِضْعٌ مِنَ الرِّجَالِ: لاغر۔ البِضْعَةُ وَالبِضْعَةُ: گوشت کا ٹکڑا۔ ج بِضْعُ وَ بِضْعٌ وَ بِضَاعٌ وَ بِضَاعَاتُ البِضْعِ وَ البِضْعُ: رات کا کچھ حصہ۔ تمین سے نو تک کی تعداد۔ کہا جاتا ہے "بِضْعُ سِنِينَ وَ بِضْعُ عَشْرَةٍ مِنَ النِّسَاءِ وَ بِضْعُ</p>	<p>جمع اَصْلُهُ کی ہے جو ایک قسم کا زہریلا سانپ ہے۔ بِضْلُ الْفَارِ: جنگلی بیاز۔ عوام اس کو بَضِيْلَةٌ کہتے ہیں۔ بِضْمٌ (ن) بِضْمًا. الْقَمَاشُ: سامان پر علامت لگانا۔ البِضْمُ: خنجر اور نحر کے درمیان کا فاصلہ۔ قَوْبٌ ذُوْبِضْمٍ: مونا غف کپڑا۔ رَجُلٌ ذُوْبِضْمٍ: مونا مرد۔ البِضْمَةُ: علامت۔ أَلْبِضْمًا: حلوا کی ایک قسم۔ البِضَانُ وَ البِضَانُ: ماہِ رَجَبِ الْآخِرِ۔ ج بِضَانَاتٌ وَ ابْنَةُ بِضَا (ن) أَبْضُوا. غَرِيضَةٌ: قرضدار سے سب کچھ لے لینا۔ البِضْوَةُ: چنگاری۔ انگارہ۔ بِضٌ (ش۔س) ابْضَاةٌ وَ بِضْوَةٌ: مونا پے کے ساتھ پتلے اور نرم چمڑے والا ہونا۔ صفت (بِضٌّ وَ بَاضٌ وَ بِضِيضٌ) مَوْنُثٌ بِضَّةٌ وَ بَاضَةٌ وَ بِضِيضَةٌ. بِضٌ (ش) ابْضًا وَ بِضُوضًا وَ بِضِيضًا. المَاءُ: تھوڑا تھوڑا بہنا۔ الخَجْرُ: پانی رستا بتخل کے لئے کہا جاتا ہے "فَلَانَ مَا يَبِضُّ خَجْرُهُ" یعنی فلاں کے خیر کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ العينُ: آنسو لگانا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانَ مَا تَبِضُّ عَيْنُهُ" فلاں کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتا۔ یعنی وہ سمیٹتوں پر صبر کرنے والا ہے۔ "أَوْتَسَرَ العُودُ": بجانے کے لئے چھیڑنا لَهُ: دینا۔ بِضْضًا وَ بِضَاضَةً: تھوڑا دینا یا تھوڑا پانی دینا۔ أَبْضٌ. لَهُ: تھوڑی سی چیز دینا۔ بِضْضٌ تَبْضِيضًا: ناز و نعمت کی زندگی بسر کرنا۔ إِبْتِضٌ. الْقَوْمُ: ساری قوم کو تباہ کر دینا۔ تَبْضِضٌ. فَلَانًا: سب کچھ لے لینا۔ حَقْفُهُ</p>	<p>العشاءُ بَوَاصِرُهُ": بہترین کھانا وہ ہے جو تاریکی سے پہلے کھالیا جائے۔ البَاصِرُ: چھوٹا گول پالان۔ جو بَوَاصِرُ البَصْرِ: کنارہ۔ روٹی۔ چھال۔ بَصْرٌ كَمَلٌ شئ: حدیث میں ہے "بَصْرٌ كَمَلٌ سَمَاءٌ مَسِيرَةٌ خَمْسِمِائَةَ عَامٍ": آسمان کی موناٹی پانچ سو برس کی مسافت کے برابر ہے۔ البَصْرُ: نرم شدید پتھر۔ المَبْصَرُ وَ المَبْصُرَةُ: واضح روشن دلیل۔ المُبْصِرُ: تمہیان۔ کہا جاتا ہے "رَبَّتْ عَلَيَّ بُنْتَانِي مُبْصِرًا" میں نے اپنے باغ کے لئے ایک تمہیان مقرر کیا۔ بِضْعَةٌ (ف) بِضْعًا: جمع کرنا۔ الماءُ: پانی بہنا یا رستا۔ البِضْعُ: رات کا کچھ حصہ۔ البِضْعُ: بے وقوف۔ انگشت شہادت اور بیچ والی انگلی کے درمیان کا فاصلہ۔ البِضْبِيعُ: پینہ جو جسم سے نچک رہا ہو۔ ج بِضْعُ الأَبْضِعُ: بے وقوف۔ اس کو تاکید کے موقعہ پر بھی استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں "أَخَذْتُ حَقِيْقِي أَجْمَعُ أَبْضِعُ" مَوْنُثٌ (بِضْعَاءُ) ج أَبْضِعُونَ وَ بِضْعٌ..... اور اس کو اجمع پر مقدم نہیں کرتے۔ بِضْقٌ (ن) ابْضُقًا: تھوکننا۔ الشاةُ: حاملہ بکری کو دودھ پنا۔ البِضَاقُ: تھوک اور جب تک منہ میں ہو اس کو ریق کہتے ہیں۔ بِاضِقَةٌ: آگ برسانے والے جنگلی ہتھیار۔ البِضْفَةُ: بلند سنگاخ زمین۔ ج بِضَاقُ بِضْلَةٌ وَ تَبْضَلَةٌ. مِنْ نِيَابِهِ: نچکا کرنا۔ تَبْضَلُ. القَشْرُ: چھلکے کا مونا ہونا۔ البِضْلُ: بیاز۔ واحد بِضْلَةٌ. البِضْلَةُ: لوہے کا خود اور اسی سے ہے "خَسِرْ جُؤَامًا كَمَا تَهْتُمُ الأَصْلُ وَ عَلَيَّ زُوْؤِسِهِمُ البِضْلُ" وہ لوگ نکلے گویا کہ ڈسنے والے سانپ ہیں اور ان کے سروں پر خود ہیں۔ اس قول میں اصل:</p>
---	---	--

<p>البَطْر : اگٹوٹھی۔ البَطْر : رائیگاں۔ کہا جاتا ہے "ذَهَبَ ذَمُّهُ بَطْرًا" اس کا خون رائیگاں گیا۔ المُبِطَّرُ : خنتہ کرنے والا۔ مَوْتٌ مُبِطَّرَةٌ۔ البَطِينُ : دور۔ کہا جاتا ہے "شَاؤَ بَطِينٌ" مسافت بعید "كَيْسٌ بَطِينٌ" بھری ہوئی تھلی۔ البَطِينُ : بڑے پیٹ والا۔ البَطِينُ : چاندکی منازل میں سے ایک منزل کا نام۔ المُبِطِنُ : پتلے پیٹ والا۔ المُبِطِنَةُ : ایک قسم کی کشتی۔ الباطنية : بڑا پیالہ۔ شراب کے لئے شیشہ کا برتن۔ ج بواط بَطْ (ن) بَطَطًا : الغود : بجانے کے لئے چھیڑنا۔ درست کرنا۔ البَطْ : الرَّجُلُ : موتا ہونا۔ صفت (بَطِيظ) البَطْ : فِطْرًا : کا تابع ہے۔ کہا جاتا ہے "هُوَ فِطْرًا بَطْ" وہ سخت مزاج ہے۔ بَطْر (س) بَطْرًا : الرَّجُلُ : غیر محتون ہونا صفت اَبْطَرُ : مَوْتٌ بَطْرًا : ج بَطْرُ : البَطْر : اگٹوٹھی۔</p>	<p>البطن : حریس جس کا نصب العین صرف پیٹ ہو۔ البطنۃ : ڈبر۔ البطنۃ : زیادتی خوراک کی وجہ سے بہت زیادہ شکم بڑی۔ البطن : ابطنۃ و بطن : تنگ جس کو جانور کے پیٹ کے نیچے سے باندھتے ہیں۔ کپڑے کا ایک ٹکڑا جس کو گھوڑے پر کھینوں سے بجانے کے لئے ڈالتے ہیں۔ کہا جاتا ہے۔ "فَلَانَ عَرِيضُ الْبَطْنِ" فلاں غنی یا آسودہ حال ہے۔ "وَالنَّفْسُ حَلَقًا" البطن : معاملہ نگین ہو گیا اور مصیبت سخت ہوئی۔ بَطَانَةُ : الثوب : کپڑے کا استر۔ الرَّجُلُ : اہل و عیال خاص لوگ۔ بھید۔ ج بَطَانَتِن : رازدار۔ الباطن : اندتعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے۔ ہر چیز کا اندرونی حصہ۔ پوشیدہ۔ مَن الْأَرْضِ : پیٹ حصہ۔ مَن الْقَدَمِ : تلوار۔ ج ابطنۃ و بطنان الباطنۃ : بھید۔ البطین : دور۔ کہا جاتا ہے "شَاؤَ بَطِينٌ" مسافت بعید "كَيْسٌ بَطِينٌ" بھری ہوئی تھلی۔ البَطِينُ : بڑے پیٹ والا۔ البَطِينُ : چاندکی منازل میں سے ایک منزل کا نام۔ المُبِطِنُ : پتلے پیٹ والا۔ المُبِطِنَةُ : ایک قسم کی کشتی۔ الباطنية : بڑا پیالہ۔ شراب کے لئے شیشہ کا برتن۔ ج بواط بَطْ (ن) بَطَطًا : الغود : بجانے کے لئے چھیڑنا۔ درست کرنا۔ البَطْ : الرَّجُلُ : موتا ہونا۔ صفت (بَطِيظ) البَطْ : فِطْرًا : کا تابع ہے۔ کہا جاتا ہے "هُوَ فِطْرًا بَطْ" وہ سخت مزاج ہے۔ بَطْر (س) بَطْرًا : الرَّجُلُ : غیر محتون ہونا صفت اَبْطَرُ : مَوْتٌ بَطْرًا : ج بَطْرُ : البَطْر : اگٹوٹھی۔</p>	<p>تَبَطَّلُ : بہادر بننا۔ بیکار رہنا۔ کہا جاتا ہے "تَبَطَّلُوا بَيْنَهُمْ" انہوں نے اپنے درمیان لغو اور باطل امور کئے۔ البطالة : بیکاری۔ کام سے فراغت۔ البطالة : بہادری۔ الباطل : فاحق۔ ناحق۔ ج اباطیل : شیطان۔ جادوگر۔ ج بطلۃ البَطْلُ : باطل۔ جھوٹ اور کہا جاتا ہے "ذَهَبَ ذَمُّهُ بَطْلًا" اس کا خون رائیگاں گیا۔ البطالات : لغویات۔ فضولیات۔ الابطالة و الابطولة : باطل۔ البطم و البطم : بن۔ بن کا پھل۔ بَطْن (ف) بَطُونًا و بَطْنَا : پوشیدہ ہونا صفت (باطن) بَطْن (ن) بَطْنَا : الودی : داخل ہونا۔ فَوَلَّهُ : پیٹ پر مارنا۔ بَطْنُ الْأَمْرِ : کسی معاملہ کی تلوکوپینا۔ (..... بَطُونًا و بَطَانَةً) بَفْلَانٍ و مِنه : کسی کے خواص میں سے ہونا۔ بَطْن (س) بَطْنَا و بَطْن (ک) بَطَانَةٌ : بڑے پیٹ والا ہونا۔ صفت (بَطْن و بَطِين و مِبْطَان) بَطْن. بَطْنَا : جتلائے درو شکم ہونا۔ صفت مِبْطُون بَطْن و ابطن. الثوب : استر لگانا۔ الدابة : تنگ کرنا۔ ابطن الشئ : پوشیدہ کرنا۔ باطنۃ : سرگوشی کرنا۔ دوٹی کرنا۔ بِطَانُ : المكان : دور ہونا۔ بَطْن و ابطن : الشئ : اندر داخل ہونا۔ الامور : معاملہ کی تلوکوپینا۔ البطن : پیٹ۔ ہر چیز کا اندرونی حصہ۔ بَطْنُ الْأَرْضِ : زمین کا پیٹ حصہ۔ مَن الْقَوْمِ : گردہ جو قبیلہ سے اور قمار سے زائد ہو۔ بَطْن و ابطن و بطنان : کہا جاتا ہے "الْقَبْتُ الذَّجَاجَةَ ذَابِطْنَهَا" یعنی مرثیٰ نے انڈے دیئے۔ "وَصَاحَتْ عَصَا فِيسِرِ بَطْنِهِ" یعنی وہ جھوکا ہوا۔ البطن : پیٹ کی بیماری۔</p>
---	---	--

کام کرنے پر اکسایا..... السَّمِيْت: دوبارہ زندہ کرنا اور اسی سے "يَوْمُ الْبُعْثِ" ہے بمعنی روزِ قیامت۔ السَّيْلُ: سیلاب کا تیزی کے ساتھ بڑھنا..... عَلِيٌّ بِالْكَلام: بہت زیادہ باتیں کرنا۔	(بَعْرَةٌ) نَبْعَات: البعير: نو (۹) سالہ یا چار (۴) سالہ اونٹ یا اونٹنی نَبْعُرَان و أَبْعُرُه و جِجْ أَبَاعِر و أَبَاعِير
بُعْث (س) بُعِثًا: نیند سے بیدار ہونا۔	الباعجة: وادی کا کشادہ حصہ۔ نَبْوَاعِج	السَّمِيْعُ وَالْمَبْنَعُ: یعنی نکلنے کا عضو۔ آنت کی چربی۔
بُعِثَ الشَّيْءُ: کسی چیز کا تیزی سے ظاہر ہونا..... الشُّعْرُ مِنْهُ: شعر کی آمد ہونا۔	بُعْدُ (ك) بُعْدًا و بَعْدُ (س) بَعْدًا: دور ہونا۔ ہلاک ہونا۔ مرنا۔ صفت (بَاعِد) ج	بَعْرَقَةٌ بَعْرَقَةً: پراگندہ کرنا۔ بکھیرنا۔
تَبَاعَثُوا: عَلِيٌّ الشَّيْءُ: ایک دوسرے کو کرنے پر برا بیٹھنے کرنا۔	بَعْدُ و (بَعْد) بَعْدًا: جمع دونوں کے لئے و (بعید) ج بَعْدًا و بَعْدًا	بُعِضُ السَّرْجُلِ: پتھروں سے تکلیف
اِبْتُعْتُ: بھیجا جانا۔ کسی چیز کا تیزی سے ظاہر ہونا..... فِی السَّيْرِ: جلدی کرنا۔	أَبْعَدُ: دور ہونا۔ (أَبْعَدُهُ و بَعْدُهُ و بَاعِدُهُ): دور کرنا۔	بَعَضُهُ: حصے بنانا۔ جزء جزء کرنا۔
اِبْتَعْتُهُ: بھیجنا۔	تَبَاعَدُوا: ایک دوسرے سے دور ہونا۔	تَبَعَضُ: جزء جزء ہونا۔
الْبُعْثُ وَ الْبَعِثُ: فوج۔ ہر وہ جماعت جو کہیں بھیجی جائے۔ نَبْعُثُ و بَعُوْتُ.	تَبَاعَدُ و اِبْتَعَدُ و اِسْتَبَعَدُ: عَنَهُ: دور ہونا۔ اِسْتَبَعَدَ الشَّيْءُ: دور پانا یا بھجنا۔	أَبْعَضُ: الَمْكَاثُ: پتھروں سے دور ہونا۔ صفت (بَعْضُ و مَبْعُضُ)
الْبَاعُوثُ ج بَوَاعِثُ: عیسائیوں کی عید فتح کے دوسرے دن نماز۔	الْبُعْدُ وَ الْبَعْدُ وَ الْبُعْدَةُ: دوری۔ رائے و دور اندیشی۔ بُعْدُ الْهٰءِ: بددعا ہے۔ یعنی اللہ اس کو ہلاک کرے یا خیر سے محروم کرے۔	بَعْضُ الشَّيْءِ: کسی چیز کا ایک جزء اور کبھی ایک فرد کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جسے "بَعْضُ اللَّيَالِي": یعنی راتوں میں سے ایک رات۔ نَبْعَاضُ
الْبَاعُوثُ: عیسائیوں کی اصطلاح میں استقاء کی نماز (کلہ سر یا نیہ ہے)	الْبُعَادُ: بعید کی مانند صفت ہے۔ دور۔	بَعْضُ الشَّيْءِ: کسی چیز کا ایک جزء اور کبھی ایک فرد کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جسے "بَعْضُ اللَّيَالِي": یعنی راتوں میں سے ایک رات۔ نَبْعَاضُ
الباعث و الباعثة: سبب نَبْوَاعِثُ البعث و المبعوث: بھیجا ہوا۔ اٹھایا ہوا۔	بُعْدُ: ظرف زمان ہے بمعنی پیچھے اور اس کے لئے اضافت لازم ہے اور اگر اضافت نہ ہو تو ارادہ اضافت کی صورت میں مبنی بر ضمہ ہوتا ہے اور اگر اضافت نیت میں بھی نہ ہو تو منصوب ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے "بُعْدُ و بَعْدًا وَ مِنْ بَعْدِ	بَعْضُ الشَّيْءِ: کسی چیز کا ایک جزء اور کبھی ایک فرد کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جسے "بَعْضُ اللَّيَالِي": یعنی راتوں میں سے ایک رات۔ نَبْعَاضُ
يَوْمُ بُعْثَات: ایک جنگ کا نام جو اوس و خزرج کے درمیان زمانہ جاہلیت میں ہوئی تھی۔	الْأَبْعَدُ: بہت دور۔ خیانت کرنا والا۔ ج	بَعْضُ الشَّيْءِ: کسی چیز کا ایک جزء اور کبھی ایک فرد کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جسے "بَعْضُ اللَّيَالِي": یعنی راتوں میں سے ایک رات۔ نَبْعَاضُ
بَعَثْرَةٌ بَعَثْرَةٌ: بکھیرنا..... الْمَتَاعُ: اَلْتَنَا پلٹنا۔	أَبَاعَدُ	بَعْضُ الشَّيْءِ: کسی چیز کا ایک جزء اور کبھی ایک فرد کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جسے "بَعْضُ اللَّيَالِي": یعنی راتوں میں سے ایک رات۔ نَبْعَاضُ
تَبَعَثُوا: اَلْتَنَا پلٹنا جانا۔ کہا جاتا ہے "تَبَعَثُوا نَفْسِي": یعنی میرا نفس مضطرب ہو گیا اور متنی ہونے لگی۔	بُعْدُ نَفْطَيْنِ عَلَيَّ كُورَةً: دونوں نقطوں کے پاس سے گزرنے بڑے دائرے کے دو قوسوں میں سے چھوٹنا۔	بَعْضُ الشَّيْءِ: کسی چیز کا ایک جزء اور کبھی ایک فرد کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جسے "بَعْضُ اللَّيَالِي": یعنی راتوں میں سے ایک رات۔ نَبْعَاضُ
بَعِجَ (ف) بَعِجًا. الْبَطْنُ: پھاڑنا۔ صفت (بَاعِجٌ) صفت مفعولی (مَبْعُوجٌ وَ بَعِيجٌ) بَعِيجٌ..... مذکر و مؤنث دونوں کے لئے مستعمل ہے ج بَعِجِي..... الْأَرْضُ آبَارًا: بہت کھوکھلی کھودنا..... الْمَطَرُ الْأَرْضُ بَعِجَ فِيهَا: شدت و قوت کی وجہ سے پتھروں کو ظاہر کرو دینا..... بَطْنُهُ لَهُ: خیر خواہی میں مباہدہ کرنا۔	رَجُلٌ (بِئَعْدُ): بہت دور دور کا سفر کرنے والا۔	بَعْضُ الشَّيْءِ: کسی چیز کا ایک جزء اور کبھی ایک فرد کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جسے "بَعْضُ اللَّيَالِي": یعنی راتوں میں سے ایک رات۔ نَبْعَاضُ
بَعِجَ (س) بَعْرًا الْجَمَلُ: نو (۹) سالہ یا چار (۴) سالہ اونٹ ہونا۔	بَعْرُ (ف) بَعْرًا: بیٹھنے کرنا۔	بَعْضُ الشَّيْءِ: کسی چیز کا ایک جزء اور کبھی ایک فرد کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جسے "بَعْضُ اللَّيَالِي": یعنی راتوں میں سے ایک رات۔ نَبْعَاضُ
بَعْرُ (ف) بَعْرًا: بیٹھنے کرنا۔	بَعْرُ السَّحْبِيِّ وَ أَبْعَرُهُ وَ تَبَعْرُهُ: ساری بیٹھنی نکال دینا۔	بَعْضُ الشَّيْءِ: کسی چیز کا ایک جزء اور کبھی ایک فرد کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جسے "بَعْضُ اللَّيَالِي": یعنی راتوں میں سے ایک رات۔ نَبْعَاضُ
بَعْرُ (ف) بَعْرًا: بیٹھنے کرنا۔	السَّعْرُ وَ التَّبَعْرُ ج أَبْعَارُ: یعنی واحد	بَعْضُ الشَّيْءِ: کسی چیز کا ایک جزء اور کبھی ایک فرد کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جسے "بَعْضُ اللَّيَالِي": یعنی راتوں میں سے ایک رات۔ نَبْعَاضُ

البَغْفُوطَةُ: کبریا کی گولی۔

بَعَكَ (س) بَعَكَا: الجِسْمُ: بدن کا خشک اور کھردرا ہونا۔

البَاعِيكُ: بے وقوف۔

بُعْكَوْكَةُ: النَّاسُ: لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ..... الضَّيْفُ: گرمی..... البُعْكَوْكَةُ: کسی چیز کا درمیانی حصہ۔

بَعَل (ن) بَعَالَةٌ وَبُعُولَةٌ: الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ: شوہر ہونا۔ بَعَلَتِ الْمَرْأَةُ: شوہر والی ہونا۔

بَعَل (س) بَعَلًا: بِمَرْوَةٍ: تھیر ہونا۔ صفت (بعل) مَوْنَتُ بَعْلَةٍ

تَبَعَلَتِ الْمَرْأَةُ: شوہر کی اطاعت کرنا۔

بَاعَعَلُ: الْقَوْمُ قَوْمًا: آپس میں شادی بیاہ کرنا۔

اسْتَبَعَلَ: السَّمَكَانُ: بَارَانِي هَوَانًا: الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ: شوہر ہونا۔

البُعْلُ: بَعُولٌ وَبَعَالٌ وَبُعُولَةٌ: شوہر۔ بیوی کو بعل اور بعلہ بھی کہتے ہیں۔ البُعْلُ:

مالک۔ سردار۔ کہتے ہیں "مِن بَعْلٍ هَذِهِ السَّافِيَةُ": اس اونٹنی کا مالک کون ہے۔ اسی

کے لحاظ سے کنعانی وغیرہ بت پرست اپنے معبودوں پر لفظ بعل کا استعمال کرتے تھے۔

البُعْلُ مِنَ الْأَرْضِ: بَارَانِي زَمِينًا۔

بُعْلِيكُ: مَلِكُ شَامَ: كَمَا كَانَ مَلِكًا: شہر کا نام۔ نسبت کے لئے بعلجیحی و بعلی۔

البُعِيمُ: اَيُّكَ مَلِكًا: لَكْرِي كِي بِنِي هَوْنِي مَوْرَتٍ: مَوْمٌ كِي كَرِيَا: رَجُلٌ بَعِيمٌ: شَعْرَتُهُ كَمَا كَانَتْ وَالْمَوْرَدُ۔

بَعَايَعِي وَبَعُوَا بَعُوَا وَبَعِي بَعِي بَعِيًا: گناہ کرنا۔ خطا کرنا..... هُ الْبَعِيْنُ: نَظَرٌ بَدَلًا نَا..... عَلَيْهِمُ الشَّرُّ: کسی کے ساتھ برائی کرنا..... الشُّيْ: مَنكُ لِيْنَا۔

بِعَ (ن) بَعَا: الدَّمُ: خُونٌ كَمَا جَوَّشَ فِيهَا آتَا۔

بَعَغَ بَعُغَةً: السَّاطُ: بَجَّوْنَا رَوْدَنَا۔

السُّبُعُ: كَفَتَلُو فِي رُؤُوسِهِمْ كَرْنًا وَاللَّيْلُ بَعَثَ بَعَثًا: بَعَثًا وَبَعَاةً: اِجْتَاكَ آتَا۔

جاتا ہے "لَسْتُ آمِنٌ مِنْ بَعَثَاتِ الْعَدُوِّ":

میں دشمن کے اچانک آجانے سے مامون نہیں ہوں۔

بَعَثَ (س) بَعَثًا: سَبَزِي مَالِكٌ سَفِيْدٌ هَوَانًا: گرد آلود ہونا۔ صفت (أَبْعَثُ): مَوْنَتُ بَعَثًا۔

الْأَبْعَثُ: اَيُّكَ آتِي پَرْنَدَةً: بَعَثُ وَآبَاعُثُ: الْأَبْعَثُ: شِيْرُ۔

البُعْثَةُ: سَبَزِي مَالِكٌ سَفِيْدِي۔

البُعْثَاءُ: مِنَ النَّاسِ: لَوِغُوْنَ كَمَا تَلَوُّوْا رُوْدَةً: کہا جاتا ہے۔ "ذَخَلْنَا فِي الْبُعْثَاءِ": ہم لوگوں کی جماعت میں داخل ہو گئے۔

الْبُعْثَاتُ: بِتَلِيْثِ الْبِئَاءِ: سَبَزِي مَالِكٌ سَفِيْدٌ رَمَكٌ كَمَا اَيُّكَ پَرْنَدَةً: جو گدھ سے چھوٹا اور اڑنے میں سست ہوتا ہے۔ بَعَثَانُ

عَرَبٌ كَقَوْلِ "إِنَّ الْبُعْثَاتُ بِسَازِضِنَا يَسْتَبْسِرُ" كَمَا مَطْلَبٌ يِيْهُ: کہ جو ہمارے پڑوس میں رہتا ہے وہ ہماری وجہ سے معزز بن جاتا ہے۔

الْبُعَيْثُ: كَيْهَوْنُ۔

بَعَثَرُ: الْقَوْمُ: جَوَّشَ فِيهَا آتَا: آپس میں مخلوط ہونا۔ بَعَثَرَةٌ: جِدَا جِدَا كَرْنَا: مَتَرَقٌ كَرْنَا۔

بَعَثَرْتُ نَفْسِي وَتَبَعَثَرْتُ: جِي مَتَلَانَا۔

الْبَعَثَرُ: بِيْ وَتَوَفُّ: بَرِيْ ذُوْلُ كَا أُوْنَتُ۔

بَعْدَادُ: عِرَاقُ كَمَا اَيُّكَ شَهْرٌ كَمَا نَامَ حَسُّ كَوْمَدِيْنَةٍ السَّلَامُ: اَدْرُزُ وَاَدْرَاءُ: اَدْرَادُ السَّلَامُ: جِي كَقَوْلِي

تَبَعْدَادُ: بَعْدَادُ كِي جَانِبٌ مَنَسُوْبٌ هَوَانًا: بَعْدَادُ وَالْوَلُوْ كِي مَشَابِهَةٌ اِخْتِيَارًا كَرْنَا۔

بَعُوْر (س) بَعُوْرًا وَبَعُوْرًا: پَانِي پِيْنَا اَدْرُ سِرَابٌ نَدُوْنَا: صَفْتٌ (بَعُوْرٌ وَبَعُوْرٌ: جَعَلْنَا بَعُوْرًا وَبَعُوْرًا: بَعُوْرًا: النَّسَاءُ: بَرَسَانَا..... النَّجْمُ: سِتَارَةٌ كَرْنَا۔

بَعُوْرَتُ: الْأَرْضُ: بَارَشٌ هَوَانًا۔

الْبَعُوْرُ: بِيَاْسٌ حَسُّ فِي سِرَابِي نَدُوْنَا (وَالْبَعُوْرُ): بَخْتٌ بُوْجِيْمَارُ: كَمَا جَاتَا بِيْ" تَعَبَرْتُ قَوْمًا شَعْرًا بَعُوْرًا: وَهَلُوْ كِي هَرَطُفٌ مَتَرَقٌ

بَعُوْرَتُ: الْأَرْضُ: بَارَشٌ هَوَانًا۔

بَعُوْرَتُ: الْأَرْضُ: بَارَشٌ هَوَانًا۔

بَعُوْرَتُ: الْأَرْضُ: بَارَشٌ هَوَانًا۔

ہو گئے۔

البَعُوْرَةُ: پَانِي كِي قُوْتُ۔

بَعُوْرَةُ (ف) بَعُوْرًا: لِأَهْمِي سِي مَارَانَا۔

البَعُوْرُ: سِرْعَتُ حَرَكَتُ: بَحْمِي۔

البَاغُوْرُ: بَحْمَتُ: فَسَقٌ وَفُجُوْرٌ فِي مَنِيْمِكُ۔

البَاغُوْرِيَّةُ: حَرِيْرِي كَمَا نَدَا اَيُّكَ قِسْمٌ كَمَا كَبُرَا۔

الْبُوْغَاظُ: آتَا بَعَثُ۔

بَعَثَتْ (ف) بَعَثًا: النَّسَاءُ: بَلِكِي بَارَشٌ بَرَسَانَا..... الصَّبِيُّ اِلَى اَبِيْهِ: رُوْدَانَا سُوْ كَرُ مَتَوَجُّدٌ هَوَانًا۔

بُعْثَبُ: الْأَرْضُ: بَلِكِي بَارَشٌ پَرْنَا۔

الْبُعْثَةُ: بَلِكِي بَارَشُ۔

بَغَضٌ وَبَغْضٌ (ن) ك) وَبَغِضٌ (س) بَغَاظَةٌ: دَشْمِي كَرْنَا: نَفْرَتُ كَرْنَا۔ (مَا أَبْغَضَنِي لَهُ وَمَا أَبْغَضَهُ اِلَيْ) سَبِيْوِيْ بِيْ كَمَا كَمَا جِي تَمَّ "مَا أَبْغَضَنِي لَهُ" كَبُوْتُوْنَا كَمَا مَطْلَبٌ يِيْ هِيْ كَمَا مِيْنِ اِسْ كِي تَزْدِيْكُ بِيْتُ زِيَادَةٌ مَبْغُوْضٌ هُوْنَا اَدْرُ جِي مَبَا أَبْغَضَهُ اِلَيْ: كَبُوْتُوْنَا كَمَا مَطْلَبٌ يِيْ هِيْ كَمَا وَهِيْ رِيْ تَزْدِيْكُ بِيْتُ

بَغْضَةٌ: اَلِيْهِ: نَفْرَتُ دَلَانَا: دَشْمِي دَلَانَا۔

أَبْغَضُهُ: دَشْمِي كَرْنَا: نَفْرَتُ كَرْنَا۔

تَبَغَّضُ: اَلِيْهِ: دَشْمِي كَرْنَا۔

تَبَاغَضُوا: اَيُّكَ دُوْرِي سِي دَشْمِي كَرْنَا۔

الْبَغْضُ: نَفْرَتُ: دَشْمِي۔

أَبْغَضَهُ وَبَغْضَهُ: اَلِيْهِ: نَفْرَتُ كَرْنَا: دَشْمِي كَرْنَا۔

بَغْضَتُ: اَلِيْهِ: دَشْمِي كَرْنَا۔

بَغْضَتُ: اَلِيْهِ: دَشْمِي كَرْنَا۔

بَغْضَتُ: اَلِيْهِ: دَشْمِي كَرْنَا۔

بَغْضَتُ: اَلِيْهِ: دَشْمِي كَرْنَا۔

بَغْضَتُ: اَلِيْهِ: دَشْمِي كَرْنَا۔

بَغْضَتُ: اَلِيْهِ: دَشْمِي كَرْنَا۔

بَغْضَتُ: اَلِيْهِ: دَشْمِي كَرْنَا۔

<p>تکالنا۔ بَقْرٌ: بھینٹا۔ کھل جانا۔ وسیع ہونا۔ تَبَقَّرَ الرَّجُلُ: علم یا مال میں زیادتی والا ہونا۔</p>	<p>المُبْتَغِي والمَبْتَغَاة: طلب کرنے کی نوعیت یا جگہ۔ کہا جاتا ہے "بَغَيْتُ الْمَالِ مِنَ مَبْتَغَاهِ": میں نے مال کو اس کے موقع سے تلاش کیا۔ جیسے کہتے ہیں "أَتَيْتُ الْأَمْرَ مِنْ مَبْتَغَاهِ": میں نے کام کو اس طرح انجام دیا جیسا دینا چاہئے۔</p>	<p>صفت (بَسَاعِمَةٌ وَبُغُومٌ) بَغْمُ الرَّجُلِ صَاحِبُهُ: بہیم گفتگو کرنا۔ بَاغِمَةٌ: نرم آواز سے گفتگو کرنا۔ الْبَغَامُ: ہرن کی آواز۔ الْبُغْمَةُ: عورتوں کا بار (کلمہ ترکی ہے) ج بَغْمُ.</p>
<p>البَقْرُ: گائے۔ تیل (اسم جنس) واحد (بَقْرَةٌ) ج بَقَرَاتٌ وَبَقْرٌ وَبَقْرٌ وَبَقْرٌ وَبَقْرٌ وَبَقْرٌ وَأَبَاقِرٌ وَأَبَاقِرٌ. بَقْرُ الْوَحْشِ أَوْ الْبَقْرُ الْوَحْشِيُّ: تیل گائے۔ جَوْعُ الْبَقْرِ: سخت بھوک۔ غَيُونُ الْبَقْرِ: ایک قسم کا گھور۔ بَقْرُ الْمَاءِ: گائے کے مشابہ ایک قسم کی مچھلی۔</p>	<p>المُبْتَغِي: شیر۔ فَسَّةٌ (بَسَاعِمَةٌ): امام عادل کی اطاعت سے نکلنے والی جماعت۔</p>	<p>بَغَا (ن) بَغَاوا، الشَّيْءُ: غور سے دیکھنا۔ عَلَيْهِ: تعدی کرنا۔ زیادتی کرنا۔ صفت (بَغُو) الْبَغْوَةُ: کچا پھل۔ مِنْ النَّبَاتِ: خشک۔ جو سفید نکلا ہو۔</p>
<p>البَقْرُ وَالْبَقَارِيُّ: جھوٹ۔ مصیبت۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ فُلَانٌ بِالسُّقْرِ وَالْبَقْرِ وَالصَّقَارِيِّ وَالْبَقَارِيِّ": فلاں شخص جھوٹ اور مصیبت لایا۔ یعنی مصیبت کا سبب بنا۔</p>	<p>بَقِيَ (ن) بَقِيَ. الْمَاءُ مِنْ فِيهِ: پانی کو منہ میں سے زور سے پھینکنا۔ لَنَا الْعَطَاءُ: بخشش وسیع کرنا۔ مَالُهُ: بکھیرنا۔ متفرق کرنا۔ الْجَرَابُ: پھاڑنا۔ بَقَا وَبُقُوًا (نَبْتُ): لگاتار کثرت سے بارش ہونا۔ الْمَرْأَةُ: بہت اولاد والی ہونا۔ الْبَيْتُ: بہت بھل والا ہونا۔ (بِقَافًا وَبِقَا وَأَبَقَ) عَلَي الْقَوْمِ: بہت بک بک کرنا۔</p>	<p>بَغَى (ض) نَبَغًا وَبَغِيًا وَبُغِيًا وَبُغِيَةً وَبَغِيَةً الشَّيْءُ: طلب کرنا۔ الرَّجُلُ: حق سے ہٹ جانا۔ نافرمانی کرنا۔ عَلَيْهِ: دراز دتی کرنا۔ ظلم کرنا۔ صفت (بَاغَ) ج بَغَاةٌ وَبَغِيَانٌ: السَّمَاءُ: سخت برسات۔ الْأَمَةُ: زنا کرنا۔ الْجُرْحُ: سو جتنا خراب ہونا۔ پیپ سے بھرتا۔</p>
<p>البَقِيرَةُ وَالْبَقِيرُ: بغیر آستینوں والی عورتوں کی قمیض۔ نَسَاقَةُ الْبَقِيرَةِ: اونٹنی جس کا پیٹ چاک بکر کے بچہ نکالا گیا ہو۔</p>	<p>بَقِيَ (ن) بَقِيَ. مَالُهُ: متفرق کرنا۔ (وَأَبَقَ) الْبَيْتُ: بہت بھل ہونا۔ وَأَبَقَ وَلِذَا فُلَانٌ: بہت ہونا۔ أَبَقَتِ الْمَرْأَةُ: بہت اولاد والی ہونا۔ السَّمَاءُ: لگاتار بہت بارش ہونا۔ الْبَيْتُ: بھل۔ پیو۔</p>	<p>بَغَى (ض) نَبَغًا وَبَغِيًا وَبُغِيًا وَبُغِيَةً وَبَغِيَةً الشَّيْءُ: طلب کرنا۔ بَغَى (ض) نَبَغًا وَبَغِيًا وَبُغِيًا وَبُغِيَةً الشَّيْءُ: طلب کرنا۔ بَغَى (ض) نَبَغًا وَبَغِيًا وَبُغِيًا وَبُغِيَةً الشَّيْءُ: طلب کرنا۔</p>
<p>البَقْرِ وَالْبَقَارِيُّ: جھوٹ۔ مصیبت۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ فُلَانٌ بِالسُّقْرِ وَالْبَقْرِ وَالصَّقَارِيِّ وَالْبَقَارِيِّ": فلاں شخص جھوٹ اور مصیبت لایا۔ یعنی مصیبت کا سبب بنا۔</p>	<p>بَقِيَ (ن) بَقِيَ. مَالُهُ: متفرق کرنا۔ (وَأَبَقَ) الْبَيْتُ: بہت بھل ہونا۔ وَأَبَقَ وَلِذَا فُلَانٌ: بہت ہونا۔ أَبَقَتِ الْمَرْأَةُ: بہت اولاد والی ہونا۔ السَّمَاءُ: لگاتار بہت بارش ہونا۔ الْبَيْتُ: بھل۔ پیو۔</p>	<p>بَغَى (ض) نَبَغًا وَبَغِيًا وَبُغِيًا وَبُغِيَةً وَبَغِيَةً الشَّيْءُ: طلب کرنا۔ بَغَى (ض) نَبَغًا وَبَغِيًا وَبُغِيًا وَبُغِيَةً الشَّيْءُ: طلب کرنا۔ بَغَى (ض) نَبَغًا وَبَغِيًا وَبُغِيًا وَبُغِيَةً الشَّيْءُ: طلب کرنا۔</p>
<p>البَقِيرَةُ وَالْبَقِيرُ: بغیر آستینوں والی عورتوں کی قمیض۔ نَسَاقَةُ الْبَقِيرَةِ: اونٹنی جس کا پیٹ چاک بکر کے بچہ نکالا گیا ہو۔</p>	<p>بَقِيَ (ن) بَقِيَ. مَالُهُ: متفرق کرنا۔ (وَأَبَقَ) الْبَيْتُ: بہت بھل ہونا۔ وَأَبَقَ وَلِذَا فُلَانٌ: بہت ہونا۔ أَبَقَتِ الْمَرْأَةُ: بہت اولاد والی ہونا۔ السَّمَاءُ: لگاتار بہت بارش ہونا۔ الْبَيْتُ: بھل۔ پیو۔</p>	<p>بَغَى (ض) نَبَغًا وَبَغِيًا وَبُغِيًا وَبُغِيَةً وَبَغِيَةً الشَّيْءُ: طلب کرنا۔ بَغَى (ض) نَبَغًا وَبَغِيًا وَبُغِيًا وَبُغِيَةً الشَّيْءُ: طلب کرنا۔ بَغَى (ض) نَبَغًا وَبَغِيًا وَبُغِيًا وَبُغِيَةً الشَّيْءُ: طلب کرنا۔</p>
<p>البَقْرِ وَالْبَقَارِيُّ: جھوٹ۔ مصیبت۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ فُلَانٌ بِالسُّقْرِ وَالْبَقْرِ وَالصَّقَارِيِّ وَالْبَقَارِيِّ": فلاں شخص جھوٹ اور مصیبت لایا۔ یعنی مصیبت کا سبب بنا۔</p>	<p>بَقِيَ (ن) بَقِيَ. مَالُهُ: متفرق کرنا۔ (وَأَبَقَ) الْبَيْتُ: بہت بھل ہونا۔ وَأَبَقَ وَلِذَا فُلَانٌ: بہت ہونا۔ أَبَقَتِ الْمَرْأَةُ: بہت اولاد والی ہونا۔ السَّمَاءُ: لگاتار بہت بارش ہونا۔ الْبَيْتُ: بھل۔ پیو۔</p>	<p>بَغَى (ض) نَبَغًا وَبَغِيًا وَبُغِيًا وَبُغِيَةً وَبَغِيَةً الشَّيْءُ: طلب کرنا۔ بَغَى (ض) نَبَغًا وَبَغِيًا وَبُغِيًا وَبُغِيَةً الشَّيْءُ: طلب کرنا۔ بَغَى (ض) نَبَغًا وَبَغِيًا وَبُغِيًا وَبُغِيَةً الشَّيْءُ: طلب کرنا۔</p>
<p>البَقِيرَةُ وَالْبَقِيرُ: بغیر آستینوں والی عورتوں کی قمیض۔ نَسَاقَةُ الْبَقِيرَةِ: اونٹنی جس کا پیٹ چاک بکر کے بچہ نکالا گیا ہو۔</p>	<p>بَقِيَ (ن) بَقِيَ. مَالُهُ: متفرق کرنا۔ (وَأَبَقَ) الْبَيْتُ: بہت بھل ہونا۔ وَأَبَقَ وَلِذَا فُلَانٌ: بہت ہونا۔ أَبَقَتِ الْمَرْأَةُ: بہت اولاد والی ہونا۔ السَّمَاءُ: لگاتار بہت بارش ہونا۔ الْبَيْتُ: بھل۔ پیو۔</p>	<p>بَغَى (ض) نَبَغًا وَبَغِيًا وَبُغِيًا وَبُغِيَةً وَبَغِيَةً الشَّيْءُ: طلب کرنا۔ بَغَى (ض) نَبَغًا وَبَغِيًا وَبُغِيًا وَبُغِيَةً الشَّيْءُ: طلب کرنا۔ بَغَى (ض) نَبَغًا وَبَغِيًا وَبُغِيًا وَبُغِيَةً الشَّيْءُ: طلب کرنا۔</p>
<p>البَقْرِ وَالْبَقَارِيُّ: جھوٹ۔ مصیبت۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ فُلَانٌ بِالسُّقْرِ وَالْبَقْرِ وَالصَّقَارِيِّ وَالْبَقَارِيِّ": فلاں شخص جھوٹ اور مصیبت لایا۔ یعنی مصیبت کا سبب بنا۔</p>	<p>بَقِيَ (ن) بَقِيَ. مَالُهُ: متفرق کرنا۔ (وَأَبَقَ) الْبَيْتُ: بہت بھل ہونا۔ وَأَبَقَ وَلِذَا فُلَانٌ: بہت ہونا۔ أَبَقَتِ الْمَرْأَةُ: بہت اولاد والی ہونا۔ السَّمَاءُ: لگاتار بہت بارش ہونا۔ الْبَيْتُ: بھل۔ پیو۔</p>	<p>بَغَى (ض) نَبَغًا وَبَغِيًا وَبُغِيًا وَبُغِيَةً وَبَغِيَةً الشَّيْءُ: طلب کرنا۔ بَغَى (ض) نَبَغًا وَبَغِيًا وَبُغِيًا وَبُغِيَةً الشَّيْءُ: طلب کرنا۔ بَغَى (ض) نَبَغًا وَبَغِيًا وَبُغِيًا وَبُغِيَةً الشَّيْءُ: طلب کرنا۔</p>
<p>البَقْرِ وَالْبَقَارِيُّ: جھوٹ۔ مصیبت۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ فُلَانٌ بِالسُّقْرِ وَالْبَقْرِ وَالصَّقَارِيِّ وَالْبَقَارِيِّ": فلاں شخص جھوٹ اور مصیبت لایا۔ یعنی مصیبت کا سبب بنا۔</p>	<p>بَقِيَ (ن) بَقِيَ. مَالُهُ: متفرق کرنا۔ (وَأَبَقَ) الْبَيْتُ: بہت بھل ہونا۔ وَأَبَقَ وَلِذَا فُلَانٌ: بہت ہونا۔ أَبَقَتِ الْمَرْأَةُ: بہت اولاد والی ہونا۔ السَّمَاءُ: لگاتار بہت بارش ہونا۔ الْبَيْتُ: بھل۔ پیو۔</p>	<p>بَغَى (ض) نَبَغًا وَبَغِيًا وَبُغِيًا وَبُغِيَةً وَبَغِيَةً الشَّيْءُ: طلب کرنا۔ بَغَى (ض) نَبَغًا وَبَغِيًا وَبُغِيًا وَبُغِيَةً الشَّيْءُ: طلب کرنا۔ بَغَى (ض) نَبَغًا وَبَغِيًا وَبُغِيًا وَبُغِيَةً الشَّيْءُ: طلب کرنا۔</p>

انْبِطَاطٌ : بئیر کا گزرا۔ البِقْطَةُ : زمین کا ایک حصہ۔

بَقَعَ (س) بَقَعًا : الطَّيْرُ : مختلف رنگ والا ہونا۔ صفت (أَبْقَعَ) : مَوْنُثٌ بَقَعَاءٌ : بَقَعَ فَلَانٌ بِالسَّيِّئِ : اکتفا کرنا..... الْأَرْضُ مِنْهُ : خالی ہونا۔

بَقَعَ (ف) بَقَعًا بَقَعَ : جانا۔ تم کہتے ہو "ما أَذْرِي أَيْنَ بَقَعَ" : میں نہیں جانتا وہ کہاں گیا۔ بَقَعَ الثَّوْبُ : رنگتے ہوئے سفید داغ چھوڑنا۔

تَبَقَّعَ : داغدار ہونا۔ تَبَقَّعَتِ الْيَابُ : کپڑوں پر پانی کے چھینٹے اس طرح ڈالے گئے کہ باقی رہے ہوئے بے رنگ خشک حصے بھی تر ہو گئے۔

أَبْقَعَ : تیز جانا۔ أَبْقِعَ : لَوْنُهُ : خوف یا غم سے بدلے ہوئے رنگ والا ہونا۔ (أَمْضِقَ سِمْ) سے زیادہ واضح ہے)

البَّقْعَةُ وَالبَّقَعَةُ : زمین کا ٹکرا۔ ج بَقَاعٌ وَبَقَعَ : کہا جاتا ہے "فَلَانٌ حَسَنُ البَّقْعَةِ عِنْدَ الْأَمِيرِ" : فلاں امیر کے پاس اتنے رتبہ والا ہے۔ وَالبَّقَعَةُ : پانی جمع ہونے کی جگہ۔

البَّقِيعُ : وہ جگہ جہاں مختلف قسم کے درختوں کی جڑیں ہوں۔ اِنُّنْ بَقِيعٌ : کتا۔

البَّقِيعَةُ : الباقع کا مؤنث۔ ہوشیار وزیر کی مرد جس کو فریب نہ دیا جاسکے۔ ج بَقِيعٌ کہا جاتا ہے "مَا فَلَانٌ إِلَّا بَقِيعَةٌ مِنَ البَقِيعِ"

یعنی فلاں بڑا چالاک ہے۔

الْأَبْقَعُ : سیاہ سفید داغوں والا۔ مَوْنُثٌ بَقَعَاءٌ : ج بَقِيعٌ : کلا جس میں سیاہی سفیدی ہو۔ ج بَقَعَانٌ : سَنَةٌ بَقَعَاءٌ : سال جس میں سرسبزی و خشک سالی دونوں ہوں۔

الْأَبْقِيعُ : کہا بارش والا سال۔

بَقَلَ (ن) بَقَلًا وَبَقُولًا وَبَقَلٌ : ظاہر ہونا..... نَابُ البَّعِيرِ : نکلنا..... المَكَانُ : سبزی

اُغْمَا : صفت (بِقَالٌ وَبِقَلٌ وَبِقِيلٌ) وَجَنَةُ الغَلَامِ : سبزہ آغا ہونا۔ بَقَلَ لِبَعِيرِهِ بَقَلًا :

ساگ پات جمع کرنا۔ وَابْقَلَ القَوْمُ : سبزی پانا قوم کے مویشی کا سبزی کو چرنا۔

بَقَلَ : وَجْهُ الغَلَامِ : سبزہ آغا ہونا۔ بَقَلَ وَابْقَلَ : سبزی کی تلاش میں جانا..... المَانِئِيَةُ : سبزہ چرنا۔

البَقْلُ : سبزی۔ تَرَكَارِي : ج بَقُولٌ وَابْقَالٌ. البَقْلَةُ : البَقْلُ : کا واحد (بَقْلَةُ الحُمَقَاءِ وَبَقْلَةُ الزُّهْرَاءِ وَبَقْلَةُ اليَنِينِ) خَزْدَا : ساگ۔

البَقْلَةُ البَارِدَةُ : عیش پیچہ۔ بَقْلُهُ الْأَنْصَارُ : کرم کلا۔

البِقَالَاءُ وَالبِقَالِيُّ وَالبِقَالِيُّ : لَوْبِيَا۔ أَرْضُ (بَقْلَةٍ وَبِقِيلَةٍ وَبِقَالَةٍ وَبِقْلَةٍ) : سبزی والی زمین۔

البِقَالُ : سبزی فروش۔ المَبْقَلَةُ : سبزی کی جگہ۔

البِقُولُ وَالبِقُولُ : بویام۔ مٹی کی دوات۔

ج بَوَائِلُ البَقْلَاوِيُّ : حلوی کی ایک قسم۔ بَقْمُ الثَّوْبِ : کپڑے کو قسم سے رنگنا۔ البَقْمُ : ایک قسم کی گلابی جو کپڑے رنگنے میں کام آتی ہے۔

البَقْمُ : دھتورا۔ البَقَامَةُ : مِنَ الصُّوفِ : اون جو دھننے میں گر جائے اور کاتنے کے قابل نہ ہو۔ کمزور بے عقل مرد۔

بَقَا (ن) بَقَاوَةٌ وَبَقِيٌّ (ض) بَقِيًا : فَلَانًا بَعَيْنِهِ : دیکھنا۔ نَظَرُ فَلَانًا هُ : انتظار کرنا۔

بَقِيٌّ (س) بَقِيعًا وَبَقِيٌّ (ض) بَقِيًا : ہمیشہ رہنا۔ ثابت رہنا۔

أَبْقَى : عَلَيْهِ : رحم کرنا۔ مہربانی کرنا۔ (.....) وَبَقِيٌّ وَبَقِيٌّ : ثابت کرنا۔ باقی رکھنا۔ اسْتَقَى مِنْهُ : کچھ باقی رکھنا۔ بَقِيٌّ : باقی رہنا۔

البِقَاعِيُّ : قا۔ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسی میں سے ہے۔ البِقَاعِيَّةُ : الباقی کا مؤنث۔ ج البِقَاعِيَّاتُ وَ

البِقَاعِيُّ.

البِقَوِيُّ وَالبِقَوِيُّ وَالبِقِيَّةُ : باقی ماندہ۔ ج بَقِيًا : کہا جاتا ہے "فَلَانٌ بَقِيَّةٌ قَوْمِهِ" : فلاں اپنی قوم کے بہتر لوگوں میں سے ہے۔

المَبْقِيُّ : بقا۔ زندگانی۔ ج المَبْقِيُّ : بَقَّةٌ (ن) بَقًا : مزاحمت کرنا۔ الشُّيْ : پھاڑنا۔ فُحَّ كَرْنَا الذَّائِبَةُ : چلا کر تھکانا۔ بَكُّ الرَّجُلِ : محتاج ہونا۔

بَسَاكَ : القَوْمُ : ہجوم کرنا..... الشُّيْ : تورتو ہونا۔

البَاكُ : قا۔ بے وقوف۔ بَكَّةٌ : مَلَّةٌ كَرَمٌ۔

بَكَّكَ وَبَكَّكَ : القَوْمُ عَلَيْهِ : ہجوم کرنا جمع (بَكَّكَ) : بہت بڑی جماعت۔ رَجُلٌ بَكَّكَ : سخت مزاج مرد۔

بَكَثُ (ف) وَبَكَوْنُثُ (ك) بَكَوَاوُ بَكَثَانَةٌ وَبَكَاٌ وَبَكَاءٌ : کم دودھ والی ہونا..... البَسْرُ : کم پانی والا ہونا..... العَيْنُ : کم آنسو والی ہونا۔ صفت (بَكِيٌّ وَبَكِيَّةٌ وَبَكِيٌّ وَبَكِيَّةٌ) : ج بَكَاءٌ وَبَكَائًا : اَبَدٌ بَكَاءٌ : کم داد دہش والے ہاتھ۔

بَكِيٌّ (س) بَكًا : اپنی حاجت سے محروم رہنا۔

أَبَكَ : الدَّرُ : کم پانا۔

البَكَّةُ وَالبَكَا : ایک قسم کی نباتات۔ وَاحِدٌ بَكَاءٌ۔ بَكَتَهُ (ن) بَكَتًا : تلوار یا لاشی سے مارنا۔ جنت میں غالب ہونا۔ کہا جاتا ہے "بَكَتَهُ حَتَّى أَسْكَنَهُ" : وہ اس پر جنت میں غالب رہا یہاں تک کہ اس کو خاموش کر دیا۔

بَكَتَهُ : بمعنی بَكَتَهُ : زجر کرنا۔ سرزنش کرنا۔ جَمْرٌ كَرْنَا اور اسی سے ہے بَكِيَّةُ الضَّمِيرِ.

بَكَّسْرًا : انتہائی باریک جراثیم اس کو فقط دور زمین کے ساتھ دیکھا جاسکتا ہے۔ (بکثیرا) أَلْبَكْسَرِيُّ لَوَلُو جِيَا : جراثیم کا علم اس علم کا طب

میں بیماریوں کی تحقیق میں بڑا فائدہ ہے۔
 بَکْرٌ (س) بَکْرًا، اِلَى الشَّيْءِ: جلدی کرنا۔
 بَکْرٌ (ن) بَکْرًا: آگے بڑھنا..... عَلَيْهِ
 وَ اِلَيْهِ: صبح کے وقت آنا..... فِي الشَّيْءِ: صبح
 سویرے کرنا۔
 اَبْكَرٌ وَ بَکْرٌ: آگے بڑھنا۔ جلدی کرنا.....
 فَلَانًا: صبح کے وقت آنا۔ بَکْرَةٌ عَلَيْهِمْ: کسی
 کو صبح سویرے بھیجنا۔ بَکْرُ الْمُضَلِّي: اوّل
 وقت میں نماز کے لئے آنا۔
 بَاكِرَةٌ: صبح کے وقت آنا۔
 تَبْكَرُ: آگے بڑھنا۔
 اِبْتَكْرُ: کسی چیز کے ابتدائی حصہ پر قابض ہونا
 فَلَانًا: صبح کے وقت آنا۔
 الْبَاكِرُ: اِقَاتًا بَاكِرًا: وہ اس کے پاس صبح
 کے وقت آیا۔
 الْبَكْرُ: والدین کا پہلا بچہ۔ (مذکر و مؤنث
 دونوں کے لئے ہے) جوان گائے :
 کنواری۔ ہر چیز کا اوّل۔ بَکْرٌ الْبَكْرُ:
 ہر فعل کہ اس جیسا اس سے پہلے نہ ہوا ہو۔
 الضَّرْبَةُ الْبَكْرُ: تلوار کا دار جو قاتل ہو۔ کَوْمٌ
 بَکْرٌ: پہلا دانہ گور کا۔ نَارٌ بَکْرٌ: آگ جس
 میں سے ابھی کچھ لیا نہ گیا ہو۔ خَلٌّ بَکْرٌ: تیز
 سرکہ۔ الذَّرَّةُ الْبَكْرُ: درنا سفید۔
 الْبَكْرُ: جوان اونٹ۔ بَکْرٌ الْبَكْرُ وَ
 بَکْرٌ وَ بَکْرَةٌ: مؤنث بَکْرَةٌ بَکْرٌ:
 الْبَكْرَةُ: صبح۔ تم کہتے ہو "اَتَيْتُهُ بَکْرَةً" میں
 اس کے پاس صبح کے وقت آیا۔
 الْبَكْرَةُ وَ الْبَكْرَةُ: وزنی سامان اُتارنے
 چڑھانے کی چرخی۔ بَکْرٌ وَ بَکْرَاتٌ کہا
 جاتا ہے "وَ الْبَكْرَاتُ شَرُّهُنَّ الصَّائِمَةُ"
 چرخوں میں سے بُری وہ ہے جو گھومے
 نہیں۔ الْبَكْرَةُ: جماعت اور اسی سے ہے "
 جَانُوا عَلَيَّ بَکْرَةً اَبِيهِمْ": وہ سب کے
 سب آئے کوئی بھی باقی نہیں رہا۔
 الْبَكْرَةُ: دو شیزگی۔ کنوارا پن۔
 الْبَكْرِيَّةُ وَ الْبَكْرِيَّةُ الْبَكْرُ: کا اسم۔

السَّكْرَةُ: پہلا میوہ۔ ہر چیز کا پہلا۔ بَکْرٌ
 بَوَاكِرٌ وَ بَاكِرَاتٌ۔
 الْبَكْرُ وَ الْبَاكِرُ وَ الْبَاكِرُ: ہر چیز میں
 سے پہلے تیار ہونے والا۔ موسم بہار کی ابتداء
 کی بارش۔
 الْبَكْرِيَّةُ: پھل یا درخت خرما جو پہلے تیار ہو
 جائے۔ بَکْرٌ الْبَاكِرُ:
 الْمُبَكِّرُ: موسم بہار کی پہلی بارش۔
 الْمُبَكَّرُ: پھل یا درخت خرما جو پہلے تیار ہو
 جائے۔ اَرْضٌ مَبَكَّرٌ: جلدی اُگانے والی
 زمین۔ بَکْرٌ مَبَكِّرٌ:
 بَکْسَةٌ (ن) بَکْسًا: مغلوب کرنا۔
 بَکْعَةٌ (ف) بَکْعًا: بدن کے مختلف حصوں پر
 سخت مارنا۔ جنت سے مغلوب کرنا۔ بدسلوکی
 سے پیش آنا۔ کہا جاتا ہے "مَا اَفْرَى اَيْنَ
 بَکْعٌ" میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں گیا۔ وَ بَکْعُ
 الشَّيْءِ: بخش دینا۔
 بَکْعَةٌ: بکڑے بکڑے کرنا۔ جنت سے مغلوب
 کرنا۔ رَجُلٌ (اَبْکَعٌ): ہاتھ کٹا مرد۔
 بَکَلٌ (ن) بَکْلًا وَ بَکْلٌ: الشَّيْءُ: ملانا
 الرَّجُلُ: آنا، ستو گھی ملا کر کھانا تیار
 کرنا۔
 تَبْکَلُ فِي الْكَلَامِ: بگڑ بگڑ کرنا..... وَ
 عَلَيْهِ: گالی گلوچ مار پیٹ سے غالب آنا۔
 الشَّيْءُ: غنیمت سمجھ کر لینا..... الرَّجُلُ:
 خوش بھیشی کی زندگی بسر کرنا..... فَيَسْتَشِيئُهُ:
 تاز سے چلانا۔
 اِبْتَكَلُ: الشَّيْءُ: غنیمت سمجھ کر لینا۔
 اَلْبَكْلَةُ: حال۔ ہیئت۔ شکل و صورت۔
 طبیعت۔ بَکْلٌ
 الْبَكَالَةُ وَ الْبَكْلَةُ: ایک قسم کا کھانا جو آنا
 ستو گھی یا روغن زیتون ملا کر تیار کیا جاتا
 ہے۔ الْبَكْلَةُ: غنیمت۔
 بَکَالُوْرِيَا: ثانوی کی آخری کلاس کی سند۔
 اَلْکَلِيْلِيكُ: حکومت کے لئے خاص سامان
 اور زمین۔ (یونانی)
 بَکِمٌ (س) بَکِمًا وَ بَکَامَةً: گونگا ہونا۔

صفت (اَبْکِم) بَکِمًا وَ (بَکِيم) بَکِيمًا
 بَکِمَانٌ.
 بَکِمٌ (ک) بَکَامَةً: جان بوجھ کر خاموش
 ہونا۔
 تَبْکِمُ: الْكَلَامُ عَلَيْهِ: گفتگو کا بند ہو جانا۔
 بَکِي (ض) بَکِيًا وَ بَکِي: رونا۔ صفت
 (بَاکِب) بَکِيًا: مَوْنُثٌ بَاکِيَةٌ بَکِيًا كِيَاثٌ
 وَ بَوَاكِبٌ.
 بَکِي وَ بَکِيٌ: الْمَيْتُ: میت پر رونا۔
 بَکِي وَ اَبْکِي وَ اِسْتَبْکِي: الرَّجُلُ:
 رُلانا۔
 تَبَاكِي: رونے کی صورت بنانا۔ بَکَلْفٌ
 رونا۔
 الْبَکَاءُ وَ الْبَکِي: بہت رونے والا۔
 التَّبَاكِيُّ وَ التَّبَاكِيُّ: گریہ یا کثرت گریہ۔
 الْمُبْکِي: رونے کی جگہ بَکِيًا.
 بَلٌ: حرف عطف ہے۔ سابق سے اضراب
 کے لئے آتا ہے جیسے "فَاذْهَبْ زَيْدٌ بَلْ
 عَمْرُوٌ": میں تم عمر کے لئے ہے اور زید
 مسکوت عندہ کے حکم میں ہے۔
 بَلَةٌ (ن) بَلًا وَ بَلَةٌ وَ بَلَلًا: بِالْمَاءِ: تر
 کرنا۔ بَلٌ بَلَةٌ: دینا۔
 بَلٌ (س) بَلًا وَ بَلًا: بَکْدًا: فتح مند
 ہونا۔ کامیاب ہونا۔ پالینا جیسے "اِذَا بَلَّتْ
 بِقَاسِمِهِ يَدِي" یعنی جبکہ اس کے قبضہ پر میرا
 ہاتھ پہنچے۔
 بَلٌ (ض) بَلًا وَ بَلًا وَ بَلُولًا: مِنْ مَرَضِهِ:
 صحت یاب ہونا۔ چمکا ہونا..... بَلًا فِي
 الْاَرْضِ: جانا..... بَلُولًا: الرِّيحُ: سرد ہوا
 کا چلنا۔
 اَبْلُ: الشَّجَرُ: پھلدار ہونا..... اَلْفُوْدُ: بکری
 میں تری کا ہونا۔ مِنْ مَرَضِهِ: صحت یاب
 ہونا۔ اَبْلَةٌ فِي الْاَرْضِ: لے جانا۔
 بَلَّلُ: التَّوْبُ: تر کرنا۔
 تَبَلَّلُ وَ اِنْتَلُ: تر ہونا..... وَ اِسْتَبَلُّ مِنْ
 مَرَضِهِ: صحت یاب ہونا۔
 اَلْبَلُّ: صحت و شفا۔ مباح اور اسی سے عباس

..... البسْر: پانی حتم ہونا۔ صفت (بلسوح)
..... الزَّجْلُ بِالْأَمْرِ: انکار کرنا..... الغریم:
مفلس ہونا..... السَّرْجُلُ بِشَهَادَتِهِ:
چھپانا..... (بلسوحا و بلسح و تبلح):
تھکنا۔ عاجز ہونا۔ کہا جاتا ہے "بلسح و تبلح
عسلی" یعنی میں نے اس کے پاس کچھ نہیں
پایا۔

أَبْلَحُ: النَّخْلُ: کچی کھجوروں والا ہونا۔
بَلَّحَ: الْقَوْمُ: حق نہ ہوتے ہوئے بھگڑنا اور
غالب ہو جانا۔

تَبَالَحَا: بِأَهْمِ انْكَارِ كَرْنَا۔
البالِح: زمین جس میں کچھ نہ اگے۔ ج
بَوَالِحِ:

أَبْلَحَ: کچی کھجور۔ کھجور کی ابتدائی حالت کو
طلع: کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خلال پھر
بَلَّحَ پھر بَسْرُ پھر رُطْبُ پھر تَمْرُ۔

البلسح: ایک پرندہ جو گدھ سے بڑا ہوتا ہے
ج بِلْحَانِ:

بَلَيْسَخَاءُ: پھولوں کی پیداوار اور عطر والا پودا
جو کہ زیادہ تر مصر میں پویا جاتا ہے۔

البلوح: اندھا کنواں۔ قطع رحمی کرنے والا۔

بَلَّحَ (س) بَلَّحًا وَ تَبَلَّحَ: تکبیر کرنا۔ بے
وقوف ہونا۔ صفت (أَبْلَحَ) مَوْتٌ بَلَّحَاءُ
(و بَلَّحَ و بَلَّحَ)

البلسخ و البلاخ: ایک قسم کا درخت جس کو
شاہ بلوط کہتے ہیں۔

البَلَّحْشُ: ایک قسم کا قیمتی جوہر۔
بَلَدٌ (ن) بَلْدًا: بِالسَّمَكَانِ: اقامت
کرنا۔ شہر بنانا۔ صفت (بَالِدٌ) بَلْدَةٌ:

بَلْدٌ (س) بَلْدًا: کشادہ ایر ہونا۔ صفت
(أَبْلَدٌ)

بَلْدٌ (ك) بِلَادَةٌ: ست و کند خاطر ہونا۔
صفت (بَلِيدٌ و أَبْلَدٌ)

بَلْدٌ: کمزور رائے والا ہونا۔ کم ہمت ہونا۔
..... الْقَرْسُ: آگے نہ بڑھنا..... السَّحَابَةُ:
نہ برنا۔

..... الرَّجْلُ: بجل کرنا..... هُ فِي إِصْطِلَاحِ

مُبْتَلٌ: شبر۔
بَلَّسِلَ بَلْسِلَةً وَ بَلْسِلًا: الْقَوْمُ: بھڑکا دینا۔
جوش دلانا۔ غم میں مبتلا کر دینا..... الألسنة:
مخلوط کرنا..... الألفسعة: متفرق کرنا۔ کھیرنا

..... الإزاء: خراب کرنا بگاڑنا۔
تَبَلَّسِلَ: بھڑکانا۔ غم میں مبتلا ہونا۔

البَلْسِلُ: بلبیل۔ ج بَلْبِلِ: بَلْبُلُ الأبريق:
لوٹے کی ٹوٹی۔ عوام کے نزدیک بلبیل بچوں
کا ایک کھیل بھی ہے جس کے لئے فصیح لفظ
"ذَوَامَةٌ" (لٹو) ہے۔

البَلْسَالُ: شدت غم۔ بھیرنا۔
بَلَّتْ (ض) بَلَّتًا: الشئ: کاٹنا۔

بَلَّتْ (ن) بَلَّتًا وَ بَلَّتْ (س) بَلَّتًا وَ
أَبَلَّتْ کتبا۔ بَلَّتْ (ك) بَلَالَةٌ: فصیح
ہونا۔

أَبَلَّتَهُ: يَجِينَا: قسم دلانا۔ أَبَلَّتَ الرَّجُلُ:
گفتگو سے رک جانا۔

البَلْسِيتُ وَ البَلْسِيتُ: مختصر کلام کرنے والا۔
فصیح۔ خوش بیان۔ عقلمند۔

المُبَلَّتُ: آراستہ کلام۔
البَلَّعُ: باہر۔ ہر چیز کا جاننے والا۔

البَلْسَعِيُّ: زبان آور۔ فصیح۔
البَلْسِيتُ: دو سالہ پرانا چارہ جو سیاہ ہو گیا ہو۔

بَلَّحَ (ن) بَلَّحًا وَ أَبْلَحَ وَ تَبَلَّحَ وَ أَبْلَحَ
وَ أَبْلَحَ: الضَّيْحُ: روشن ہونا۔

بَلَّحَ (س) بَلَّحًا: صَدْرُهُ: مطمئن ہونا.....
الحق: واضح ہونا۔ ظاہر ہونا۔ صفت (أَبْلَحَ)

مَوْتٌ بَلَّحَاءُ وَ الأَبْلَحُ: عَلِيَّةٌ عَلَيْهِ
أَبْرَدُوں والا۔

تَبَلَّحَ: إِلَيْهِ: ہنسا۔ خوش ہونا۔
إِبْلَاحٌ وَ إِبْلَاحٌ: إِبْلِيحًا: ظاہر ہونا۔ واضح
ہونا۔

البَلَّحَةُ وَ البَلَّحَةُ: سیدہ صبح (.....) و البَلَّحُ:
أَبْرَدُوں کے درمیان کشادگی۔

البَلَّحَةُ: دیر۔ اور بَلَّحَةٌ بِالْحَاءِ: فصیح ہے۔
البَلَّحُ وَ البَلَّحُ: کشادہ رو۔

بَلَّحَ (ف) بَلَّحًا: الْقَوْمُ: خشک ہونا۔

رضی اللہ عنہ کا قول ہے "لَا أُحِلُّهَا لِمُعْتَمِلٍ
وَهُيَ لِشَارِبِ حَلٍّ وَ بِلٍّ" میں اس کو نہانے
والے کے لئے حلال قرار نہیں دیتا اور وہ
پینے والے کے لئے حلال و مباح ہے۔

چالاک۔ کہا جاتا ہے "هُوَ بِلٌّ أَبْلَالٍ" وہ:
بڑا چالاک ہے۔

البَلَّةُ: جوانی کی تروتازگی۔
البَلَّةُ: تری۔ رزق۔ خیر۔

البَلَالُ وَ البَلَالُ وَ البَلَالُ: تری پانی
دودھ یا پانی کا اتنا حصہ جو حلق کو تر کر دے۔

البَلَالَةُ: اتنی مقدار جس سے کوئی چیز تری جا
سکے۔ تھوڑی سی چیز۔ تری۔

البَلُّلُ: بیج
السَّبِيلُ وَ البَلْبَلَةُ: نمی کے ساتھ ٹھنڈی ہوا۔
البَلْبَلَةُ: صحت۔

ذَوْبَلْسَى وَ بَلْسَى وَ بَلْيَانُ: دور کی غیر معلوم
جگہ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ بَلْسَى بَلْسَى" وہ دور
کی غیر معلوم جگہ میں ہے۔

الأَبْلُ: بدکار۔ بڑا بھگڑا لو۔ سخت بخیل۔
مَوْتٌ بَلَاءٌ: بَلَاءٌ: اور کہا جاتا ہے "لَا
شئ أَبْلٌ لِلْجَسْمِ مِنْ كَذَا" جسم کے لئے

اس سے زیادہ کوئی چیز موافق نہیں۔ صفة
بَلَاءٌ: چکنا چکر۔

البَلَانُ: حمام میں نہلانے والا۔ مَوْتٌ
بَلَانَةٌ وَ البَلَانُ: ج بَلَانَاتُ: حمام۔

البَلَّةُ: بےت و حال۔ کہا جاتا ہے "طَوْبُ
أَبْسَاءٍ عَلَى بَلْبَلِيهِ وَ بَلْبَلِيهِ" مشک کو باوجود

اس کی تری کے میں نے پیٹ لیا۔ وَ طَوْبُ
فَلَانًا عَلَى بَلْبَلِيهِ وَ بَلْبَلِيهِ وَ بَلْبَلِيهِ وَ بَلْبَلِيهِ
بَلْبَلِيَّةٌ: باوجود عیب کے میں نے فلاں کو
برداشت کیا۔

المِبْلُ: بروزن مفعول: مستقل۔ کہا جاتا ہے
"خَصْمٌ مِبْلٌ" یعنی مستقل بھگڑا لو۔

أَبْلَانُ: وہ کانٹے دار پودا جو زمین میں پھیل
کر زمین کو ناقابل کاشت بنا دیتا ہے۔

البَالُولُ: تھوڑا پانی۔
البَلَالُ وَ المَبْلِلُ: بہت شور کرنے والا مور۔

<p>البلاط: ہموار زمین۔ پتھر کے چوکے جو فرش لگانے کے کام میں آتے ہیں اور اسی سے بلاط الملک ہے بمعنی محل شاہی اور مجازاً بمعنی مجلس شاہی۔</p> <p>البط: لشکر سے بھاگنے والا۔</p>	<p>ابلیس: شیطان کا علم جس۔ رج ابالیس و ابالیس۔</p> <p>البلاتینک: لکڑی یا کانڈ یا لوہے پر اشخاص یا مقامات کو تصاویر بنانا پلاسٹک جس سے ڈھال کر اوزار اور برتن بنائے جاتے ہیں۔</p>	<p>البعض: مسکونہ جگہ کی آب و ہوا کا عادی بنانا۔ اور اسی سے "حَدِيثَةُ التَّلِيدِ": وہ باغ جس میں غیر جگہ کے حیوان یا نباتات کو آب و ہوا کا عادی بنایا جائے۔</p> <p>البلد: القوم: شہر میں ہمیشہ رہنا۔ ابلدہ البلد: شہر میں ہمیشہ رکھنا۔</p>
<p>البلوط: ایک بڑا درخت ہے جس کا تنہ موٹا اور لکڑی مضبوط ہوتی ہے اور اس کی چھال سے دباغت دیتے ہیں اور اس کا پھل کھایا جاتا ہے۔ بلوط کا پھل۔</p> <p>بلوط الأراض: ایک قسم کی گھاس ہے جس کے پتے کا سنی کے مانند ہوتے ہیں۔</p>	<p>بلسم: مکروہ چہرہ والا ہونا۔ مثلاً بے برسام ہوتا۔</p> <p>بلسم و تبلسم: گھبراہٹ کی وجہ سے خاموش ہونا۔ وبلسم: مکروہ چہرہ والا بنا دینا۔</p>	<p>بالد: تلوار یا ڈنڈوں سے جنگ کرنا۔</p> <p>تبلد: ست و کند خاطر ہونا۔ کند یعنی ظاہر کرنا۔ افسوس کرنا۔ الررجل: دونوں ہاتھوں سے تالی بجانا۔ الصبح: روشن ہونا۔</p> <p>القوم: غیر آباد شہر میں آباد ہونا۔</p>
<p>بلوط الملک: اخروٹ و شاہ بلوط: ایک قسم کا جنگلی درخت جس کی لکڑی سخت اور مضبوط پھل گول اور پتیوں کے کنارے کٹاؤ دار ہوتے ہیں۔</p> <p>البیطی: ایک قسم کی مچھلی۔</p>	<p>البلسم: گوئد کی قسم کا ایک مادہ ہے۔ جس کا زخم پر لپ لگا دیا جاتا ہے۔</p> <p>البلسم: برسام (ایک بیماری کا نام)</p> <p>البلسم: سور۔ سور کے مشابہ ایک قسم کا دانہ۔</p>	<p>البلد و البلد ج بلاد و بلدان: ہر ایک جگہ آباد یا غیر آباد۔ البلد: قبر۔ و البلد: سینہ۔ کہا جاتا ہے "هو واسع البلد" وہ کشادہ سینہ والا ہے۔ شہر۔ مچھلی۔ کہا جاتا ہے "ضرب بلدته علی بلدته" یعنی اپنی مچھلی کو اپنے سینہ پر مارا۔</p>
<p>بأطع: اپنے آپ کو زمین پر بھیجنے۔</p> <p>الشئ: چوڑا کرنا۔</p> <p>البطلة: کلباڑیوں کی ایک قسم۔</p> <p>تبأطع: چوڑا ہونا۔</p>	<p>البلسم: ایک درخت ہے جس کے پھول چھوٹے سفید رنگ کے ہوتے ہیں اور پتے تختی کے مانند اور اس سے خوشبودار تیل نکلتا ہے۔</p> <p>البلسمون: بگا۔</p>	<p>البلد: بصرہ و کوفہ۔</p> <p>البلور و البلور: ایک قسم کا شیشہ۔ ایک قسم کا سفید و شفاف جوہر۔</p>
<p>بلع (ف) بلعاً و ابتلع: الشئ: نگلنا۔</p> <p>بلعاً و ابتلعاً: نگلانا اور کہا جاتا ہے "بلعاً و ابتلعاً": اس نے اس کو تھوک نکلنے کی مدت کی مہلت دی۔ (بلع و ابتلع)</p> <p>الشئ فی راسہ: بڑھا یا ظاہر ہونا۔</p> <p>وتبلع: گھونٹ لینا۔</p>	<p>بلص: فلانا من حاله: لے لینا۔</p> <p>بالص: کسی پر کوہ پڑنا۔ حملہ کرنا۔</p> <p>تبأطع: الشئ: پوشیدہ طور سے طلب کرنا۔</p> <p>تبأطع الغنم: کم دودھ والی ہونا۔</p>	<p>البلور و البلور: ایک قسم کا شیشہ۔ ایک قسم کا سفید و شفاف جوہر۔</p> <p>البلور و طین الانبلیز: مہر کی وہ مٹی جو دریائے نیل زمین سے بہا لاکر چھوڑا جاتا ہے۔</p>
<p>تبأطع: چوڑا ہونا۔</p> <p>بلع (ف) بلعاً و ابتلع: الشئ: نگلنا۔</p> <p>بلعاً و ابتلعاً: نگلانا اور کہا جاتا ہے "بلعاً و ابتلعاً": اس نے اس کو تھوک نکلنے کی مدت کی مہلت دی۔ (بلع و ابتلع)</p> <p>الشئ فی راسہ: بڑھا یا ظاہر ہونا۔</p> <p>وتبلع: گھونٹ لینا۔</p> <p>البطلة: بچل کا سوراخ۔ ج بطلع۔</p> <p>البطلة: بہت کھانے والا مرد۔</p> <p>البطوع: بہت نکلنے والا۔</p> <p>البتلع: حلق۔</p> <p>المبتلع: بہت کھانے والا۔</p>	<p>البلص: ایک قسم کا پرندہ۔ ج بلبصی۔</p> <p>بأطع (ن) بلبطاً و بلبطاً و بلبطاً: الدار: پتھروں کا فرش لگانا۔ "و بلبط الرجل": چلنے میں تھکانا۔ بلبط اذنه: گوشائی کرنا۔ کہا جاتا ہے "إذا هفاضيك فلبط له": جب تمہارا بچہ کیے تو اس کی گوشائی کرو۔</p> <p>ألبط: البص الرجل: سب کچھ چرا لینا۔</p> <p>(..... و ألبط) محتاج و فقیر ہونا۔</p>	<p>البلور و طین الانبلیز: مہر کی وہ مٹی جو دریائے نیل زمین سے بہا لاکر چھوڑا جاتا ہے۔</p> <p>البلور: بے خیر ہونا۔ شکستہ دل ہونا۔ غمگین ہونا۔</p> <p>من رحمۃ اللہ: مایوس ہونا۔</p> <p>افسوس: پتھر ہونا۔ صفت (بلس و بلبس)۔</p> <p>فلان: غم کی وجہ سے خاموش ہونا۔</p>
<p>البطوع: بہت نکلنے والا۔</p> <p>المبتلع: بہت کھانے والا۔</p> <p>البطوع و الباطعة و البطوعه ج بوالبع و بلباع: موری۔ بدرو۔</p> <p>بلغم: اللقمہ: نگلنا۔</p> <p>البلغم: اللغم: حلق۔ ج بلبغم۔</p> <p>البلغم: بہت کھانے والا۔ تیز نکلنے والا۔</p> <p>بلغم (ن) بلوغاً: بچپنا۔ اللغم: پکنا۔</p>	<p>ألبط: البص الرجل: سب کچھ چرا لینا۔</p> <p>(..... و ألبط) محتاج و فقیر ہونا۔</p> <p>بأطع و بلبط: القوم: تلوار سے لڑنا۔</p> <p>و بلبط: چھوڑ کر بھاگ جانا۔ بلبط فی امورہ: مبالغہ کرنا۔ السابح: تیراکی میں کوشش کرنا۔</p>	<p>البلور: پتھر کر دینا۔</p> <p>البلور: بے خیر آدمی۔</p> <p>البلور: ناٹ۔ بالوں سے بنا ہوا فرش ج بلس۔</p> <p>البلور: ناٹ بیچنے والا۔</p> <p>مأذقت علوئسا و لا بلوئسا: یعنی میں نے کچھ نہیں چکھا۔</p>

اوبسان بلسقی " یعنی صاف پھل والا تیر یا نیزہ۔
 بَلْمٌ: الرَّجُلُ: برائی بیان کرنا۔
 أَبْلَمْتُ: شَفْتُهُ: سوچے ہوئے ہونٹ والا ہونا۔ صفت (أَبْلَم) البَلْمَةُ: ہونٹ کی سوجن۔
 البلم: ایک قسم کی چھوٹی مچھلی۔
 البلماء: پورے چاند کی رات۔
 بَلْمَةٌ (س) بَلْمَةٌ وَبَلْمَةٌ: ضعیف العقل ہونا۔ کمزور رائے والا ہونا۔ صفت (أَبْلَم) مؤنث بَلْمَةٌ ج بَلْمَةٌ۔
 أَبْلَةٌ: الرَّجُلُ: بے وقوف پانا۔
 تَبْلَةٌ: بے وقوف ہونا۔ حجت میں عاجز ہونا۔
 الطریق: بغیر رہنمائی اور پوچھ پانچھ کے چلنا۔ گم شدہ چیز کو ڈھونڈنا۔
 بَالَهَةٌ: فریب دینا۔
 تَبَالَةٌ: جھکت بے وقوف بنا
 بَلَّةٌ: چھوڑ دے (اسم فعل ہے)
 بُلْهَيْبَةٌ: العُغْبِشُ: زندگی کی فراخی و آسودگی۔
 بَلْهَسٌ: تیز چلنا۔
 بَلْهَصٌ: خوف سے بھاگنا۔
 بَلَا (ن) بَلَاؤٌ وَبَلَاءٌ: الرَّجُلُ: آزمائے۔
 تجربہ کرنا۔ امتحان لینا۔
 بَلَيْتِي (س) بَلَيْتِي وَبَلَاءٌ: القُوبُ: بوسیدہ ہونا۔ صفت (بال و بلیت)
 بَلَيْتِي تَبْلِيَةٌ وَأَبْلِي بَلَاءٌ: القُوبُ: بوسیدہ کرنا۔
 بَالِي مَبَالَةٌ وَبَلَاءٌ وَبَالَةٌ وَبَالًا: الْأَمْرُ وَبِالْأَمْرِ: پردا کرنا۔
 بَلَاءَةٌ: مَقَابَلَةٌ: مقابلہ پر فخر کرنا۔ ایک دوسرے کو گھٹانا۔
 أَبْلَى: فَلَاتَا عُلْدَرَهُ: کسی کے سامنے عذر پیش کرنا اور اس کا قبول کرنا۔ ملامت زائل کرنے کے لئے عذر بیان کرنا۔ فَبَلَى الْحَرْبُ بَلَاءً حَسَنًا: میدان جنگ میں شجاعت ظاہر کرنا۔

عبارت میں ادا کرنے والا۔
 الْأَبْلَغُ: ہر وہ چیز جس کو انتہا درجہ تک پہنچا دیا گیا ہو۔
 الْمَبْلَغُ: روپے پیسے کی مقدار۔ کسی چیز کی حد و انتہا۔ ج مَبَالِغُ
 التَّبْلِغُ وَالتَّبْلِغَةُ: چھوٹی رشی جس کو بڑی رشی میں باندھیں تاکہ پانی تک پہنچ جائے۔
 التَّبْلِغَةُ: قدماء اطباء کی اصطلاح میں اخلاط اربعہ میں سے ایک خلط کا نام۔
 بَلَقٌ (ن) بَلَقًا: جلدی کرنا (..... وَأَبْلَقُ) الباب: چوپٹ کھول دینا یا جلدی سے بند کر دینا۔ بَلَقُ الْجَارِيَةِ: نکارت زائل کرنا۔
 بَلَقٌ (س) وَبَلَقٌ (ك) بَلَقًا وَابْتَلَقَ وَابْتَلَقَ وَابْتَلَقَ وَابْتَلَقَ: سیاہ اور سفید داغوں والا ہونا۔ صفت (ابلق) مؤنث بَلَقَةٌ ج بَلَقٌ۔
 بَلَقٌ (س) بَلَقًا: تھیر ہونا۔ ششدر ہونا۔
 ابْتَلَقَ: الباب: بالکل کھلنا۔
 ابْتَلَقَ: چمکنا۔
 البلق: سنگ مرمر۔ بڑا خیمہ۔ بالوں کا خیمہ (..... وَابْتَلَقَةُ): سیاہی و سفیدی۔
 الْأَبْلَقُ الْقُرْدُ: سوال بن عادی کا قلعہ جو سفید سیاہ پتھروں سے بنا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے "طلب الابلق العفوق" یعنی اُس نے غیر ممکن چیز کو طلب کیا۔ اس لئے کہ ابلق ترک اور عقوق حاملہ کو کہتے ہیں۔
 البَلْقُ وَالبَلْقَةُ: جنگل۔ زمین کا وہ حصہ جہاں کچھ نہ اگے۔ ج بَلَقِيقُ۔
 البَلْقُوقَةُ: موری۔ بدر (بالوعہ میں ایک لغت ہے)
 المَبْلَقُ: سیاہ سفید داغوں والا۔
 بَلَقَعُ: المَمْكَانُ: خالی ہونا۔ صفت (بَلَقَع) کہا جاتا ہے "دَارٌ بَلَقَعُ" خالی مکان۔
 البَلْقَعُ وَالبَلْقَعَةُ: خالی زمین۔ ج بَلَقَاعُ (البلقع والمرأة البلقعة): ہر خیر سے خالی عورت۔
 البَلْقَعِي: صاف۔ کہا جاتا ہے "سہم

..... الْغَلَامُ: بالغ ہونا۔ صفت (بالغ)
 مؤنث (بِالغَةِ وَبَالِغٌ) الْعِلَّةُ: تیز ہونا اور کہا جاتا ہے "بَلِّغْ مَنِيَّ كَلَامَكَ" تمہاری گفتگو سے میں بہت متاثر ہوا۔
 بَلِّغِ الرَّجُلُ: بتلائے مشقت ہونا۔
 بَلِّغْ (ك) بَلَاغَةً: بلیغ ہونا۔ صفت (بلیغ): بَلِّغَاءُ۔
 بَلِّغُهُ وَابْتَلِّغُهُ: إِلَيْهِ: پہنچانا۔ بَلِّغْ عَنْهُ الرِّسَالَةَ إِلَى الْقَوْمِ: پیغام رسائی کرنا۔ بَلِّغِ الْفَارِسُ: تیز دوڑنے کے لئے لگام کو بڑھانا۔
 بَالِغٌ: فِي الْأَمْرِ: مبالغہ کرنا۔
 تَبَلَّغٌ: بِالْمَشْيِ: اکتفا کرنا۔ قناعت کرنا۔
 بِه الْعِلَّةُ: تیز ہونا۔
 تَبَالِغٌ: فِيهِ الْمَرَضُ: سخت ہونا اور انتہا کو پہنچنا۔ الرَّجُلُ فِي الْكَلَامِ: جھکت بلاغت سے کام لینا۔ الذَّبَابُ فِي الْجَلْدِ: دباغت کا کھال میں اچھی طرح سے ہونا۔
 البَلِّغُ وَالبَلِّغَةُ: بلیغ۔ خوش بیان۔ انتہا کو پہنچنے والا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ أَحْمَقُ بَلِّغٌ": وہ انتہائی بے وقوف ہے۔ ایسا ہی "ہی حَمَقَاءُ بَلِّغَةٌ" اور کہا جاتا ہے "أَمَرَ إِلَهُ بَلِّغٌ" اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہے۔ و جَيْشٌ بَلِّغٌ" ہر جگہ کو پہنچنے والا لشکر۔
 رَجُلٌ (بَلِّغٌ بَلِّغٌ): جھیت مرد۔
 البَلِّغَةُ: انتہائی بے وقوفی۔
 البَلِّغَةُ وَالبَلَاغُ وَالتَّبْلِغُ: گزارہ کی مقدار۔
 البَلَاغُ: پیغام۔ کسی چیز تک پہنچنا۔ کفایت۔ کتاب جس میں کسی مسئلہ کا حکم بیان کیا جائے۔ ج تَبْلَاغَاتُ. البَلَاغَاتُ: چغل خوریاں۔
 البَالِغُ: بن بلوغ کو پہنچنے والا۔ کہا جاتا ہے "غَلَامٌ بَالِغٌ وَجَارِيَةٌ بَالِغَةٌ وَبَالِغَةٌ وَأَمْرٌ بَالِغٌ" نافذ حکم۔
 البَالِغَاءُ: جانور کے پائے۔
 البَالِغِيُّ وَالبَلَاغِيُّ: مافی الضمیر کو فصیح و بلیغ

..... ؕ بَيْنَنَا: قابل الطمینان قسم کھانا۔
 تَبَاؤَاهُ: آزمائش کرنا۔
 ابْتَلَىٰ: قسم کھانا..... ؕ: آزمائش کرنا۔
 الشَّىءُ: پہچانا۔
 اسْتَبْلَىٰ: ؕ: آزمائش کرنا۔
 ابْتَلَوْا. العُشْبُ: دراز ہونا۔
 اَلْبَلْوَىٰ وَالْبَلْوَةُ وَالْبَلِيَّةُ وَالْبَلِيَّةُ: مصیبت۔ آزمائش۔ ج بلایا۔
 البلاء: عُمُ جوجسم کو گھلا دے۔ آزمائش خواہ خیر سے ہو یا شر سے۔
 البَلْوُ وَالْبَلِيَّةُ: پرانا بوسیدہ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ بَلْوٌ اسْفَارٌ وَبَلِيَّةٌ": وہ سفرا و تجربے میں پرانا ہوا ہے۔ یعنی بڑا تجربہ کار ہے۔ "وَبَلْوٌ شَرٌّ وَبَلِيَّةٌ": وہ شر میں مبتلا ہے اور اس پر غالب ہے۔ ج ابلواء۔
 البَلِيَّةُ: وہ آؤٹنی جس کو اس کے مالک کی قبر پر زمانہ جاہلیت میں باندھ دیا کرتے تھے اور چارہ پانی کچھ نہیں دیتے تھے یہاں تک کہ وہ مر جاتی تھی۔
 المَبْلِيَّاتُ: میت کے تابوت کے ارد گرد نوچہ کرنے والی عورتیں۔
 بَلَىٰ: حرف تقدیق ہے۔ بمعنی ہاں۔ اکثر استفہام کے جواب میں واقع ہوتا ہے اور ایجاب کے لئے مختص ہے خواہ اس سے پہلے مثبت ہو یا منفی۔ جیسے "أَفَأَمَّا زَيْدٌ": کیا زید کھڑا ہوا۔ اس کے جواب میں "بَلَىٰ" کا مطلب ہے کہ ہاں کھڑا ہوا۔ "أَفَأَمَّا زَيْدٌ": کیا زید نہیں کھڑا ہوا۔ اُس کے جواب میں "بَلَىٰ": کا مطلب یہ ہے کہ ہاں کھڑا ہوا۔
 البِسْمُ. مِنَ العُودِ: بربط کا مومنا تار۔ بربط کی مولیٰ آواز۔ ج بَسْمُوم (جدید)
 بَن (ض) بَنًا وَابْنٌ. بِالْمَمْكَانِ: اقامت کرنا۔ اَبْنْتُ الشَّحَابَةَ: کئی روز تک برسا۔ بَسَنَ. الشَّاةُ: بکری کو مونا کرنے کے لئے باندھنا۔ بَسَنَ: جلدی نہ کرنا۔
 البَنَّانُ: پورے۔ انگلیوں کے اطراف انگلیاں۔

البَنَّانَةُ: البنان کا واحد۔ انگلی۔ اوپر کا پورا۔ ج بَنَنَاتُ.
 البَنَّانَةُ: سرسبز باغ۔
 البَّنُّنُ: ایک درخت کا دانہ ہے جس سے قہوہ بنایا جاتا ہے۔
 بَنَّكَانُ (بَنُّ): بد بو دار جگہ۔ البِنُّ: چربی۔ فرہی۔
 البِنَّةُ: خواہ اچھی ہو یا بری۔
 البَيْنُ: مونا۔ دور اندیش عاقل۔
 بَنَّتْ. عَنهُ: خبر دریافت کرنا..... ؕ بَكَّدًا: خاموش کر دینا۔
 البِلَاجِيَّاتُ: چنل خوریاں۔
 اَلْفَرْسُ اَلْبَلَقُ: چنگیر گھوڑا۔
 البستو غراف: فوٹو گراف مشین۔
 بَنَج (ن) بَنَجًا: اصل کی طرف لوٹنا۔
 بَنَجَةٌ: بھنگ پلا کر سلا دینا۔
 البَنَجُ: بھنگ۔
 البَنَجُ: اصل۔ جڑ۔
 البَنَجِكَشْتُ: لوگ۔ (جدید)
 البَنَجْرَةُ: توپ کا دہانہ۔ ج بَنَجَارُ (جدید)
 البَسْدُ: بڑا جھنڈا۔ جھیل۔ کتاب کی فصل یا فقرہ۔ قید۔ خیل۔ ج بَسُوْدُ کہا جاتا ہے "فَلَا تَكْشِرُ البَسُوْدُ" فلاں بہت جیلوں والا ہے۔ (جدید)
 البَسْدَرُ: بندرگاہ۔ سمندر کے کنارے کا شہر۔ شہر میں تاجروں کے قیام کی جگہ ج بَسْدَارُ (جدید) (الشَّاهُ بَسْدَرُ) سوداگروں کا رئیس۔
 بَسَدَق. اِلَيْهِ: تیز نظر ڈالنا۔
 البَسْدُقُ: بندوق کی گولی۔ ایک درخت کا نام۔ واحد بَسْدُقَةٌ: بندوق درخت کا پھل۔
 البَسْدِقِيَّةُ: بارود۔
 البَسْدِيَّةُ: بڑا ڈھول۔
 البَسْدِيَّةُ: جھنڈا۔
 البَسْمِيَّةُ: تیل کی ایک قسم جو تیز جلتا ہے جلدی دھواں دیتا ہے پٹرول سے نکالا جاتا ہے

گاڑیوں میں بطور ایندھن اور دھوبی حضرات کپڑوں کی صفائی میں استعمال کرتے ہیں۔
 البَسْدِقِيَّةُ: بارود۔ اٹلی کے ایک شہر کا نام۔
 بَسَسَ (س) بَسَسًا وَابْسَسًا: برائی سے گریز کرنا۔
 بَسَسَ: عَنهُ: پیچھے ہٹنا۔
 البَصْرُ: پھنگلیا اور بیج کی انگلی کے درمیان کی انگلی۔ ج بَصْرُ (مَوْت) خنصر۔
 البَتْفَسَجُ: بفتہ۔ (البَتْفَش)
 البَسْفَلُونُ: پتلون جو کہ شلوار کی طرح انگریز لوگ پہنتے ہیں۔
 بَنَقُ (ن) بَنَقًا وَابْنَقُ وَبَنْقُ. اِلَيْهِ: پہنچنا۔
 بَنَقُ الكَلَامِ: جمع کرنا۔ درست کرنا۔
 الكَتْبُ: گھڑنا..... بِالْمَمْكَانِ: اقامت کرنا..... الشَّىءُ: کئی چیز کا قلابہ ڈالنا..... ظَهْرُهُ بِالسَّوْطِ: زخمی کرنا.....
 القَمِيصُ: گر بیان لگانا۔
 البَيْفَقَةُ وَالبَيْفَقَةُ: گر بیان۔
 طَرَفِقُ (مُنْقُ): کشادہ راستہ۔
 البَيْفُوسُ: خربوزہ کا شگوفہ۔ ج ذ بِنَاقِسِ۔
 بَنَكْتُ البَجَارِ بَنَانٍ: قبیلہ سے باہر ہو کر دونوں کا ایک دوسرے کو اپنے اپنے قبیلہ کی خبر بتانا۔
 بَنَكُ. بِالْمَمْكَانِ وَفِيهِ: اقامت کرنا۔
 فَبِي عَزْرِهِ: جاگزیں ہونا۔
 البُنْكُ: جڑ۔ رات کا حصہ۔ کہا جاتا ہے "مَضَى بُنْكٌ مِنَ اللَّيْلِ" رات کا حصہ گزر گیا۔
 البُنْكُ: بینک۔ ج بُنُوْكُ (اس کی عربی مصرف ہے)
 بَسْكْرِيَّاسُ يَأْتُوْرَةُ المَعْدَةِ: معدہ کے پیچھے ایک غدہ جو کہ غذا کو جوں بنا کر زندگی کا سامان مہیا کرتا ہے۔
 البَسَامُ: پورا (بنان کے نون کو مہم سے بدل لیا گیا ہے۔)
 بَنَى (ض) بَنَيْتًا وَبِنَاءً وَبُنْيَانًا وَبِنِيَّةً وَبِنَايَةً. البَيْتُ: تعمیر کرنا..... الأَرْضُ: آباد

<p>کرنا۔ مکانات بنانا..... علی اہلہ و بہا : پہلی رات میں بیوی کے پاس جانا..... الرَّجُلُ : بہتر سلوک کرنا..... الطَّعَامُ بَدَنَهُ : موٹا کرنا..... الْكَلِمَةُ : جی بنانا..... علی تخلابہ کسی کے کلام کی نقل کرنا۔ بِنَاءُ تَبِيَّةٍ : بنانا۔ تشدید کثرت کے لئے ہے۔ أَبْنَاءُ : عمارت، جشٹا۔ یا سامان تعمیر دینا۔ مکان بنانا۔ بَنَاءَهُ : تعمیر میں مقابلہ کرنا۔ تَسْنَى : ہ۔ بیٹا بنانا..... الرَّجُلُ : بے ہونے گھر کی مانند ہونا۔ اسی سے ہے " اِذَا خَلَسَتْ تَسْنَتْ " یعنی جب بیٹھتی ہے تو گھر کے مانند معلوم ہوتی ہے۔ إِبْنِي : بیٹا بنانا..... الرَّجُلُ : بیٹوں والا ہونا..... الرَّجُلُ : احسان و سلوک کرنا۔ عَلِي اَهْلِي وَبِهِيَ : پہلی رات میں بیوی کے پاس جانا۔ إِسْتَبْنَى : المَنْزِلُ : گرا کر بنانا..... الرَّجُلُ : دہن لانا۔ الْبِنَاءُ : عمارت۔ رَجْ أَبْنِيَّةٍ وَجَّحَ آيَاتِي : اور کہا جاتا ہے " بِنَاءٌ عَلَيْهِ " : نصب کے ساتھ اس وجہ سے کہ مفعول لہ ہے۔ الْبِنَايَةُ : حص : شرف۔ الْبِنْيَةُ وَ الْبِنِيَّةُ : عمارت۔ رَجْ بِنِي وَ بِنِي وَ الْبِنِيَّةُ : ڈھانچہ۔ شکل۔ فطرت۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ صَحِيحُ الْبِنِيَّةِ" فلاں صحیح الفطرت ہے۔ بِنِيَّةُ الْكَلِمَةِ : صیغہ اور مادہ۔ الْبِنْيَانُ : مَص : عمارت۔ کہا جاتا ہے " كَأَنَّهُمْ بِنْيَانٌ مَرْصُوفٌ " گویا وہ لوگ مضبوط عمارت کی مانند ہیں۔ الْبَانِي : فَا : رَجْ بِنَاءَهُ مَوْثُ بِنَايَةٍ رَجْ بِنَايِي : التَّوَانِي : سبزی کی پسلیاں۔ اوٹنی کی ٹانگیں اور اسی سے ہے " بَنَى الْبَيْتَ عَلَيَّ تَوَانِيهِ " : اس نے گھر کو اس کی بنیاد پر بنایا۔ الْبِنَاءُ : مَعَارِمُ بِنَاؤُونَ الْإِبْنُ : بیٹا۔ رَجْ بِنُونِ وَ أَبْنَاءُ : تصغیر یعنی اور نسبت کے لئے ابنی اور بنوی (اصل کے</p>	<p>ملاحظ سے اور ہمزہ وصل کو ساقط کر کے) مَوْثُ ابْنَةِ : ابنتہ۔ ابْنُ السَّبِيلِ : مسافر۔ ابْنُ جَلَا : مشہور آدمی۔ ابْنُ لَيْلِهَا : بڑے کام والا۔ ابْنُ ذِكَاةٍ : صَاحِبُ ابْنِ الطَّوْدِ : آواز بازگشت۔ " هُوَ ابْنُ يَوْمِهِ " وہ ایسا شخص ہے جو کل آئندہ کی فکر نہیں کرتا۔ " هُوَ ابْنُ بَطْنِهِ " وہ ایسا شخص ہے جس کو ہمیشہ اپنے پیٹ ہی کی فکر رہتی ہے۔ الْإِبْنِمُ : بیٹا۔ میم زائد ہے اور اعراب میں نون میم کے تابع رہتا ہے۔ الْبِنْتُ : جمع بنات : بیٹی اور نسبت کے لئے بِنْتِي وَ بِنَوِي : بِنْتُ الشَّفَةِ : کلمہ..... الْأَرْضُ : کنکری..... الْيَمَنُ : قبوہ..... الْعَيْنُ : آنسو..... الْعَبْقُودُ أَوْ الْكُرْمُ : شراب۔ بِنَاتُ الدَّهْرِ : وَبِنَاتُ طَبَقِ : سختیاں۔ بِنَاتُ اللَّيْلِ وَ بِنَاتُ الصُّدْرِ : افکار۔ بِنَاتُ أَخْذَرٍ : جنگلی گدھے۔ بِنَاتُ السَّمَالِ : عورتیں۔ بِنَاتُ الْأَرْضِ : چھوٹی چھوٹی ندیاں۔ بِنَاتُ نَعَشِ الْكُبْرَى : سات ستارے جو قطب شمالی کی جانب دکھائی دیتے ہیں اور اسی کے مانند بِنَاتُ نَعَشِ الصُّغْرَى ہیں۔ بِنَاتُ الْقَنْصَلِ : لمبے پتوں والے ایک پودے کا نام۔ بِنْتُ وَرْدَانَ : گہریلا۔ الْبِنِيَّةُ : عمارت۔ خانہ کعبہ۔ (الْبِنِيَّةُ الْخَضْرَاءُ) آسمان۔ بُنْيَاتُ الطَّرِيقِ : چھوٹے چھوٹے راستے جو بڑے راستے سے نکلے ہوں اور اسی سے ہے " دَعُ بِنْيَاتِ الطَّرِيقِ " یعنی اپنے اوپر بڑے بڑے امور کو لازم سمجھو اور کرو فریب کو چھوڑ دو۔ السَّمَانِي : شرافتیں۔ حُرُوفُ السَّمَانِي : حروف سبکی۔ الْبِنُوءَةُ : فرزندی۔ بَهَاً (ف) وَبَهِيً (س) وَبَهُوً (ك) : بَهَاً وَبَهَاءً وَبُهُوً : بہ : نالوس ہونا..... لُءُ : سمجھنا۔ کہا جاتا ہے " مَا بَهَاتَ لُهُ وَمَا بَاهَتْ</p>	<p>لُهُ " میں نے اس کو نہیں سمجھا۔ بَهَاً (ف) وَبَهَاً وَأَبَهَاً : سمان سے خالی کرنا۔ إِبْتَهَاً : بہ : نالوس ہونا۔ بَهَتْ (س) وَبَهَتْ (ك) وَبَهَتْ بَهْتًا وَ بَهْتًا : ہکا ہکا رہنا۔ متحیر ہو کر خاموش ہونا (مجبوراً فصیح اور مشہور ہے۔) بَهْتَهُ (ف) بَهْتًا : اچانک پکڑنا (..... ہ بَهْتًا وَبَهْتَانًا : تہمت لگانا۔ صفت (بَهْتَات) وَ (بَهْوَات) رَجْ بَهْتُ : بَهْتَهُ وَبَاهْتَهُ : جھوٹی تہمت لگا کر ہکا ہکا کر دینا۔ بَاهَتْ الرَّجُلُ : بہتان لگانا۔ الْبِهْتَةُ : حیرانی (..... وَالْبَهْتُ وَ الْبَهْتَانُ) : جھوٹ تہمت۔ الْبِهْوَاتُ : جھوٹی تہمت لگا کر ہکا ہکا کر دینے والا۔ رَجْ بَهْتُ : الْبَهْتُ وَ الْبَهْتَانُ : جھوٹ۔ الْبِهْتَةُ : پست قدم۔ رَجْ بَهَاً تَبْرُ : الْبِهْتَةُ : جھوٹ۔ الْبِهْتَةُ : جنگلی گائے۔ بَهْتُ (ف) بَهْتًا : کشادہ روئی سے پیش آنا۔ بَهْتَجَهُ (ف) بَهْتَجًا وَ أَبَهْتَجَهُ : خوش کرنا۔ بَهْتَجُ (س) بَهْتَجًا : بہ : خوش ہونا۔ صفت (بَهْتَجُ وَ بَهْتَجُ) بَهْتَجُ (ك) بَهْتَجَةً وَ بَهْتَجَانًا : خوبصورت ہونا۔ صفت مذکر (بَهْتَجُ) وَ صفت مؤنث (بَهْتَجُ) بَهْتَجَهُ : خوبصورت بنانا۔ بَاهْتَجَهُ : خوبصورتی میں مقابلہ کرنا اور فخر کرنا۔ أَبَهْتَجُ وَ تَبَاهْتَجُ : المَمَكَانُ : سرسبز ہونا۔ إِبْتَهْتَجُ وَ تَبَهْتَجُ وَ تَبَاهْتَجُ : اِسْتَبَهْتَجُ : بہ : خوش ہونا۔ تَبَهْتَجُ : خوبصورت ہونا۔ الْبَهْتَجَةُ : خوبصورتی۔ ترو تازگی۔ خوشی یا ظہور خوشی۔ الْبَهْتَجُ : خوش۔</p>
--	---	--

البواہد: بلائیں۔ سختیاں۔

البہذل: بھوکا بچہ۔ البہذلة: بہتان کی جز۔

بہرہ (ف) بہرًا: غالب ہونا۔ فضیلت

میں بڑھ جانا..... فلائنا: بہتان لگانا.....

الحمل فلائنا: بوجہ کی وجہ سے ہانپنے لگانا۔

..... الرجل: ہمسروں سے فائق ہونا

(..... القصر) ستاروں کی روشنی پر غالب

ہونا (..... بہرًا و بہرًا) الشمس روشن

ہونا۔

بہر و انبہر: سخت دوڑنے سے ہانپنا۔

صفت (بہر و منہور) و انبہر: پوری

کوشش کرنا۔

بأخرة منبہرة و بہارًا: فخر کرنے میں مقابلہ

کرنا۔

انبہر: عجیب کام کرنا۔ فقیری کے بعد مالدار

ہونا۔ دوپہر کی گرمی میں داخل ہونا۔ تلون

الاعلاق ہونا۔

انبہر: پوری پوری کوشش کرنا۔ مجھوٹا دعویٰ

کرنا..... ہ: واقعی عیب لگانا..... السیف:

تلوار کے دو ٹکڑے ہونا۔

انبہار: اللیل أو النهار: آدھا ہونا (.....)

علینا اللیل: رات کا دراز ہونا (..... و

استبہر) اللیل: رات کا بہت تاریک ہونا۔

تبہر: الإناء: برتن کا بھر جانا..... السحابہ:

بادل کا چمکانا۔

البہر: جھکن سے ہانپنا کہا جاتا ہے

"بہر الہ" اس کے لئے ہلاکت ہو۔ لیلۃ

البہر: مہینے کی ساتویں آٹھویں نویں

رات۔

البہرۃ: من المکان و الزمان: وسط

درمیان۔

البہار: خوبصورتی۔ ایک قسم کا خوشبودار

پھول جس کو "عین البقر": (گاؤ چشم) بھی کہتے ہیں۔

البہار: بنت۔ ابا تیل۔ دھنی ہوئی روٹی۔

ایک قسم کی سفید مچھلی۔

البہیرۃ: موٹے سرینوں والی شریف عورت

بج بہار۔

الانبہر: پیٹھ۔ کہا جاتا ہے "فلان شہید"

الانبہر: فلاں مضبوط پیٹھ والا ہے۔ گردن

کی شرگ۔ و (الابہران): دور گیس ہیں

جو قلب سے نکلتی ہیں اور انہی سے ساری

شریان جسم میں پھیلتی ہوئی ہیں اور اسی سے

ہے "مازال یزاجعۃ الالکم حتی قطع

انبہرۃ" اس کو تکلیف بار بار ہونی رہی یہاں

تک کہ اسے ہلاک کر دیا۔

السامرۃ: بڑے پتوں والے زرخیز کی قسم کا

پودہ جو کہ گلدستہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے

ایک ہی دفعہ پھول نکالتا ہے۔

البہور: شیر۔

الابہر: پرندوں کے پر جو خوانی اور کھلی کے

درمیان ہوتے ہیں۔ پیلے پروں کو قسوام

کہتے ہیں پھر اس کے بعد والوں کو منسکب

اس کے بعد والوں کو ابہر اور بالکل اخیر

والوں کو ٹھلی کہتے ہیں۔

بہرج: اللیماء: رازیکان کرنا..... المکان:

جگہ کو رفاہ عام کے لئے کر دینا..... بہم:

الذکیل: رہنما کا سیدھے راستے سے ہٹ

جانا۔

تبہرج: تکبر کرنا۔ المرأة: آراستہ

ہونا۔

..... المکان: رفاہ عام کے لئے ہونا۔

البہرج: باطل۔ ردی۔ کہا جاتا ہے "لؤلؤ

بہرج": ردی موتی۔ کھوٹا درہم۔ مکان۔

بہرج: رفاہ عام جگہ۔

تبہرج: تکبر سے اڑتے ہوئے چلنا۔

بہرم بہرمۃ: شجرہ: مہندی کا خضاب

لگانا۔

تبہرم: مہندی لگانے سے سرخ ہونا۔

البہرمۃ: مہس۔ برہمنوں کی عبادت۔

البہرم: مہندی۔

البہرمان: زرد رنگ کی ایک قسم۔

البہینۃ: ایک درخت کا نام جو کہ اوزار بنانے

کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

بہرہ (ف) بہرًا و انبہرہ: سختی سے

دھکیانا۔ غلبہ کرنا۔

المنہر: سختی سے بہت دھکیانے والا۔

بہس (ف) بہسًا: علیہ: دلیری کرنا۔

بہس الیہ (ف) بہسًا: خوشی سے متوجہ

ہونا۔ مشتاق ہونا..... بیدہ الیہ: لینے کے

لئے ہاتھ بڑھانا..... لبکساء: رونے کے

لئے آمادہ و تیار ہونا..... عنہ: کھود کرید

کرنا۔

بہس و تبہس: القوم: اکٹھا ہونا۔

البہس: ترگوگل (گوگل ایک دوکانا نام

ہے)

رجل بہس: بشاش بشاش مرد۔

البواہ: ایک بڑے سانپ کی قسم۔

بہص (س) بہصًا: بیاسا ہونا۔

البہص: پیاس

بہصل و تبہصل: کپڑے اتار کر جوئے کی

بازی پر لگانا۔ بہصل القوم من مالہم:

علیحدہ کر دینا۔ نکال دینا۔

البہصم: بہت سخت۔

بہظہ (ف) بہظًا و انبہظہ: الحمل أو

الأمس: بوجھل کرنا۔ باعث مشقت ہونا۔

انبہظ حوضہ: بھر دینا۔

الباہظہ: مؤنت۔ باعث مشقت و تکلیف۔

مصیبت۔

المبہوظ: طاقت سے زیادہ تکلیف دیا ہوا۔

القرون المبہوظ: مغلوب۔

بہغ (ف) بہغًا: الرجل: سونا۔ صفت

(بناہغ)

البہق: برص کی بیماری کے علاوہ جسم پر سفید

داغ۔

بہق الحجر: پتھر پراگی ہوئی ایک قسم کی

گھاس جو کان کی مانند ہوتی ہے۔

بہکت بہکتہ: فی العمل: جلدی کرنا۔

البہگل: نازک اندام پر گوشت جوان۔

مؤنت بہکتہ: شباب بہکتہ: نئی جوانی۔

البہگن: نازک اندام پر گوشت جوان۔

ملاقات کا کرہج اُنہاء و بُہوؤ بُہی۔
 بَءَ یُؤءُ بُوًا۔ اَلِیْہ۔ لَوْنًا۔ بَءًا و بَءًا بِہ:
 لَوْنًا..... بِالسَّحْقِ اَوْ بِالذَّبِّ: اقرار کرنا
 فُلَانٌ یَفْلَانُ بَوَاءً: بدلے میں قتل کیا
 جانا۔ کہا جاتا ہے ”ذَمُّ بَوَاءً ذَمُّ“ خون خون
 کے برابر۔ بوء بہ: یعنی ان لوگوں میں سے
 ہو جا جن کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے
 اور اسی سے مہمل کا قول بھیر کے لئے ہے۔
 ”بُوْبِشْیَعِ نَعْلِ کُلْبِیْ“ یعنی کلب کے
 جوتے کے لئے کے برابر ہو جا۔
 بَسْوَاءُ الْمَكَانِ: اُتْرًا۔ نازل ہونا.....
 الرُّوحُ نَحْوَهُ: کسی کی طرف سیدھا کرنا۔
 بَوَاؤُهُ وَبَوَاؤُهُ لَهٗ مَنَزِلًا: کسی کے لئے تیار کرنا۔
 اَبَءًا۔ مَبْنً: بھاگنا..... بِالْمَكَانِ: اقامت
 کرنا۔ الشَّیْءِ وَبِالشَّیْءِ اِلَیْہِ وَعَلِیْہِ: لَوْنًا
 وَمَنْزِلًا وَفِی الْمَنْزِلِ: اُتْرًا
 الْقَاتِلِ بِالْقَتْلِ: مقتول کے بدلے میں
 قاتل کو قتل کرنا۔
 تَبَوُّا الْمَكَانَ وَبِهٖ: اقامت کرنا۔
 تَبَاوَا الشَّيْئَانِ: مساوی ہونا۔
 التَّابَةُ وَالتَّيْبَةُ وَالتَّمْوَاتُ وَالتَّمَابَةُ:
 منزل۔ والی تَبِيَّة: حالت۔ کہا جاتا ہے ”اِنَّہٗ
 حَسَنُ التَّيْبَةِ“ وہ اچھی حالت والا ہے۔
 حَاجَةٌ (مُيَبَّئَةٌ): شدید حاجت۔
 تَابَ (ن) تَبَوَّأًا: لہ: دربان ہونا۔
 تَبَوَّبَ الْكِتَابَ: ابواب میں تقسیم کرنا۔
 تَبَوَّبَ الرَّجُلُ: دربان بنانا
 التَّابُ: دروازہ..... مِّنَ الْكِتَابِ: کتاب کا
 باب۔ ج ابواب و بیبان۔
 التَّابَةُ: فِی الْحِسَابِ وَ الْحُدُودِ: غایت
 انتہا۔ شرط۔ قسم۔ عادت۔ کہا جاتا ہے ”هَذَا
 شَيْءٌ مِّنْ تَابِيَتِكَ“ یہ چیز ایسی ہے جو
 تمہارے لئے مناسب ہے ج تَابَات۔
 تَابَاتُ الْكِتَابِ: سطر۔
 التَّوَابُ: دربان۔ ج تَوَابُونَ۔
 التَّوَابَةُ: دربانی۔ دربانی کی اُجرت۔
 التَّبْوْتُ: ایک پہاڑی گھاس کا نام۔

کی چٹان۔ سخت و مشکل کام۔ ج بُہْم۔
 البُہْمُ: مشکل امور۔
 البُہْمِيُّ: بھو کی مانند ایک قسم کی نباتات۔
 البُہْمُ: کالا۔ فَرَسٌ بُہْمٌ: ایک ہی قسم کا
 گھوڑا۔ لَيْلٌ بُہْمٌ: پوری تاریک رات۔ ج
 بُہْمٌ وَ بُہْمٌ۔
 البُہْمِيَّةُ: چار پارہ۔ ج بُہْمَانِمُ۔ البُہْمِيَّةُ: ہر
 وہ جس میں قوت گویائی نہ ہو۔
 الْاَبْہِمُ: گونگا۔ ج بُہْمٌ: خاموش۔
 الْاَبْہِمَامُ: بھس۔ اُگھٹھا (مَوْنُثٌ)۔ کبھی مذکر
 استعمال کیا جاتا ہے۔ ج اَبْہِمٌ وَ اَبْہِمٌ۔
 الْمُبْہِمُ: مفع۔ اَمْرٌ مُّبْہِمٌ: غیر معروف
 معاملہ۔ کَلَامٌ مُّبْہِمٌ: غیر معروف کلام۔
 طَرِيقٌ مُّبْہِمٌ: غیر واضح راستہ۔ حَاطِطٌ
 مُّبْہِمٌ: دیوار جس میں دروازہ نہ ہو۔
 بَہِنٌ (س) بَہِنًا: بہت خوش ہونا۔
 الْبَہْمِيَّةُ: اچھی طبیعت کی عورت جو گفتگو
 وغیرہ میں نرم ہو۔ ج بَہْمَانَاتُ۔
 الْبَہْمِنُ: نَسْرَن۔
 تَبْہِمَسُ: ناز سے چلنا۔
 التَّبْہِمَسُ: شیر۔
 بَہَا (ن) وَبَہِي (س) وَبَہُو (ک)
 بَہَاءٌ: حسین و خوبصورت ہونا۔ ظریف ہونا
 صفت (بَہِيٌّ): مَوْنُثٌ بَہِيَّةٌ: بَہَاءُ:
 خوبصورتی میں غالب ہونا۔
 بَہِيٌّ (س) بَہِيٌّ: البَہِيْتُ: ویران ہونا۔
 خالی ہونا۔
 بَہِيٌّ: البَہِيْتُ: کشادہ کرنا۔
 بَہَاةٌ: فِی الْحُسْنِ: حسن و خوبی میں مقابلہ
 پر فخر کرنا۔
 اَبْہِيٌّ: خوبصورت چہرہ والا ہونا (.....)
 الْاِنْبَاءُ: خالی کرنا۔ السَّخِيلُ: جگ کے لئے
 کام نہ لینا۔
 اِبْتَهَى: بہ: فخر کرنا۔
 تَبَاهَوْا: باہم فخر کرنا۔
 الْبَہُو: مکان یا خیمہ کے آگے کا کرہ جو
 مہمان وغیرہ کے قیام گاہ کا کام دے۔

مَوْنُثٌ بَہِيَّةٌ ج بَہَايِنٌ. شَبَابٌ بَہِيْجٌ:
 نئی تر تازہ جوانی۔
 بَہَلَةٌ (ف) بَہَلًا: اللہ: لعنت کرنا۔
 وَ اَبْہَلَةٌ: چھوڑنا۔ (.....) وَ اَسْتَبْہَلُ
 الْوَالِي رَعِيَّتَهُ: یارو ک ٹوک چھوڑ دینا۔
 بَہَلْتُ. السَّاقَةَ: اونٹنی کے تھن سے بندش
 کھول دینا اور بچہ کو دودھ پینے دینا۔
 اِبْتَهَلُ. اِلَى اللّٰہِ: گڑگڑا کر دعا کرنا۔
 بَہَلٌ. بَعْضُهُمْ بَعْضًا: ایک دوسرے پر
 لعنت کرنا۔
 تَبْہَلُوْا وَ تَبَاهَلُوْا: باہم لعنت کرنا۔
 اِبْتَهَلَا: ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔
 الْبَہَلَةُ وَ الْبَہَلَةُ: لعنت۔
 الْبَہَالُ: بغیر کسی کام کے آنے جانے والا۔
 بَغِيْرُ ذَنْبٍ: بے گناہی کے چرانے والا۔ بے تمہیدار۔
 سَاقَةُ بَہَالَةٍ: وہ اونٹنی جس کے تھنوں پر بندش
 نہ ہو۔ ج بَہَلٌ وَ بَہَلٌ: مَوْنُثٌ بَہَالَةٌ:
 الْبَہَالَةُ: بیوہ عورت۔
 الْبَہْلَسُوْلُ: بہت ہنسنے والا۔ ہنسوڑ۔ جَامِعٌ
 فِضَالٌ سِرْدَارٌ۔ ج بَہَالِيْلٌ۔
 الْبَہْلَوَانُ: نداری۔ رسی پر چلنے والا۔
 بَہْلَقٌ بَہْلَقَةٌ: تکبیر کرنا۔ ڈیک مارنا۔ روبرو
 گفتگو کرنا۔ جھوٹ بولنا۔
 تَبْہَلَقٌ: جھوٹ بولنا۔
 الْبَہَالِيْقِي: جھوٹی باتیں۔
 الْبَہْلَقُ: جُحْنٌ وَ بَلَا۔
 بَہْمٌ. بِالْمَكَانِ: مستقل اقامت کرنا۔
 الْبَہْمُ: مال سے علیحدہ کر کے چرانا۔
 اَبْہِمُ. الْاَبَابُ: بند کرنا (.....) الْمَكَانُ:
 بَہْمِيٌّ: گھاس والی ہونا۔ (.....) وَ تَبْہِمٌ وَ
 اِسْتَبْہِمُ) الْاَمْرُ عَلَیْہِ: مشتہر ہونا۔ دشوار
 ہونا۔
 اُسْتَبْہِمُ عَلَیْہِ: شور مچا دینے کی وجہ سے گفتگو
 پر قادر نہ ہونا۔
 الْبَہْمُ وَ الْبَہْمُ وَ الْبَہَامُ: گائے، بھیڑ، بکری
 کے بچے۔ واحد (الْبَہْمَةُ وَ الْبَہْمَةُ)
 الْبَہْمَةُ: دلیر جس پر کوئی قابو نہ پاسکے۔ پتھر

<p>”تھائیر بائو“ یعنی کسی رہنما کی اطاعت نہیں کرتا اور نہ کسی چیز کی طرف توجہ کرتا ہے۔</p>	<p>چھوڑنے کی اجازت دینے والا۔ البساحة: پانی یا اس کا بڑا حصہ۔ بہت سے کھجور کے درخت۔ صحن۔ بساحة الطریفی: وسط راستہ۔</p>	<p>البونقة و البونقة: کٹھالی۔ البوناس: پوٹاشیم۔ اس کی علامت K ہے۔ البوناسیوم: پوٹاشیم کاربونیٹ۔ ایک سفید چمکتا مادہ زندہ مادوں کے جوڑنے اور کھاد میں کام آتا ہے۔</p>
<p>البسور: تباہ و ہلاک ہونے والا۔ بے خبر۔ کہا جاتا ہے ”بسرلة بسور و قوم نوز“ ہلاک ہونے والی عورت یا قوم (مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لئے یکساں) البسور منن</p>	<p>البسواح: کھلم کھلا۔ کہا جاتا ہے ”فسلہ بواخا“: اس نے اس کو کھلم کھلا کیا۔ ببوحک: کلمہ تر م ہے مانند وضحک کے۔ الببوح: دل کی بات ظاہر کرنے والا۔</p>	<p>البسوتان: زیادہ استعمال والا گیس جو کہ گھروں میں جلایا جاتا ہے اس کا رمز CH اس میں پروٹان C-8 تیز دھواں کی خاطر داخل ہوتا ہے۔</p>
<p>الآنرض: غیر مزروعہ زمین۔ البسور: غیر مزروعہ۔ خراب۔ زمین۔ آزمائش ہلاکی۔ کساد بازاری۔</p>	<p>البسوحی: بیچھاڑا ہوا۔ کہا جاتا ہے ”توکھم بوحی“ ببوح: آفتاب کے لئے علم ہے۔ البساحة: مچھلی کا جال۔ المبیح: جائز ٹھہرانے والا۔ شیر۔ المباح: جائز۔ روا۔</p>	<p>البسوتان: زیادہ استعمال والا گیس جو کہ گھروں میں جلایا جاتا ہے اس کا رمز CH اس میں پروٹان C-8 تیز دھواں کی خاطر داخل ہوتا ہے۔</p>
<p>البوار: ہلاکت۔ کساد بازاری۔ ذار البوار: دوزخ۔</p>	<p>البسواح: مچھلی کا جال۔ المبیح: جائز ٹھہرانے والا۔ شیر۔ المباح: جائز۔ روا۔</p>	<p>البسوتان: زیادہ استعمال والا گیس جو کہ گھروں میں جلایا جاتا ہے اس کا رمز CH اس میں پروٹان C-8 تیز دھواں کی خاطر داخل ہوتا ہے۔</p>
<p>البورق: بورک۔ سہاگا۔ سوڈا۔</p>	<p>البسواح: مچھلی کا جال۔ المبیح: جائز ٹھہرانے والا۔ شیر۔ المباح: جائز۔ روا۔</p>	<p>البسوتان: زیادہ استعمال والا گیس جو کہ گھروں میں جلایا جاتا ہے اس کا رمز CH اس میں پروٹان C-8 تیز دھواں کی خاطر داخل ہوتا ہے۔</p>
<p>البسورعی: ایک قسم کی دریائی مچھلی۔ ج بوارعی۔</p>	<p>البسواح: مچھلی کا جال۔ المبیح: جائز ٹھہرانے والا۔ شیر۔ المباح: جائز۔ روا۔</p>	<p>البسوتان: زیادہ استعمال والا گیس جو کہ گھروں میں جلایا جاتا ہے اس کا رمز CH اس میں پروٹان C-8 تیز دھواں کی خاطر داخل ہوتا ہے۔</p>
<p>البسورقہ و البسورقہ: چٹائی۔</p>	<p>البسواح: مچھلی کا جال۔ المبیح: جائز ٹھہرانے والا۔ شیر۔ المباح: جائز۔ روا۔</p>	<p>البسوتان: زیادہ استعمال والا گیس جو کہ گھروں میں جلایا جاتا ہے اس کا رمز CH اس میں پروٹان C-8 تیز دھواں کی خاطر داخل ہوتا ہے۔</p>
<p>البسورعی: چٹائی بیچنے والا۔</p>	<p>البسواح: مچھلی کا جال۔ المبیح: جائز ٹھہرانے والا۔ شیر۔ المباح: جائز۔ روا۔</p>	<p>البسوتان: زیادہ استعمال والا گیس جو کہ گھروں میں جلایا جاتا ہے اس کا رمز CH اس میں پروٹان C-8 تیز دھواں کی خاطر داخل ہوتا ہے۔</p>
<p>البسار: ایک قسم کا شکاری پرندہ۔ سبیزان و ابواز۔</p>	<p>البسواح: مچھلی کا جال۔ المبیح: جائز ٹھہرانے والا۔ شیر۔ المباح: جائز۔ روا۔</p>	<p>البسوتان: زیادہ استعمال والا گیس جو کہ گھروں میں جلایا جاتا ہے اس کا رمز CH اس میں پروٹان C-8 تیز دھواں کی خاطر داخل ہوتا ہے۔</p>
<p>البسور و البسورقہ: دودھ شکر کی جمائی ہوئی برف۔</p>	<p>البسواح: مچھلی کا جال۔ المبیح: جائز ٹھہرانے والا۔ شیر۔ المباح: جائز۔ روا۔</p>	<p>البسوتان: زیادہ استعمال والا گیس جو کہ گھروں میں جلایا جاتا ہے اس کا رمز CH اس میں پروٹان C-8 تیز دھواں کی خاطر داخل ہوتا ہے۔</p>
<p>البسورقہ: ملا زمین اور چھوٹے عہدہ داروں کا طبقہ اور بڑے مالدار جو کہ آرام و عیش کی زندگی گزارتے ہیں۔</p>	<p>البسواح: مچھلی کا جال۔ المبیح: جائز ٹھہرانے والا۔ شیر۔ المباح: جائز۔ روا۔</p>	<p>البسوتان: زیادہ استعمال والا گیس جو کہ گھروں میں جلایا جاتا ہے اس کا رمز CH اس میں پروٹان C-8 تیز دھواں کی خاطر داخل ہوتا ہے۔</p>
<p>البسورقہ: بوسہ لینا۔</p>	<p>البسواح: مچھلی کا جال۔ المبیح: جائز ٹھہرانے والا۔ شیر۔ المباح: جائز۔ روا۔</p>	<p>البسوتان: زیادہ استعمال والا گیس جو کہ گھروں میں جلایا جاتا ہے اس کا رمز CH اس میں پروٹان C-8 تیز دھواں کی خاطر داخل ہوتا ہے۔</p>
<p>البسورقہ: بوسہ لینا۔</p>	<p>البسواح: مچھلی کا جال۔ المبیح: جائز ٹھہرانے والا۔ شیر۔ المباح: جائز۔ روا۔</p>	<p>البسوتان: زیادہ استعمال والا گیس جو کہ گھروں میں جلایا جاتا ہے اس کا رمز CH اس میں پروٹان C-8 تیز دھواں کی خاطر داخل ہوتا ہے۔</p>
<p>البسورقہ: بوسہ لینا۔</p>	<p>البسواح: مچھلی کا جال۔ المبیح: جائز ٹھہرانے والا۔ شیر۔ المباح: جائز۔ روا۔</p>	<p>البسوتان: زیادہ استعمال والا گیس جو کہ گھروں میں جلایا جاتا ہے اس کا رمز CH اس میں پروٹان C-8 تیز دھواں کی خاطر داخل ہوتا ہے۔</p>
<p>البسورقہ: بوسہ لینا۔</p>	<p>البسواح: مچھلی کا جال۔ المبیح: جائز ٹھہرانے والا۔ شیر۔ المباح: جائز۔ روا۔</p>	<p>البسوتان: زیادہ استعمال والا گیس جو کہ گھروں میں جلایا جاتا ہے اس کا رمز CH اس میں پروٹان C-8 تیز دھواں کی خاطر داخل ہوتا ہے۔</p>
<p>البسورقہ: بوسہ لینا۔</p>	<p>البسواح: مچھلی کا جال۔ المبیح: جائز ٹھہرانے والا۔ شیر۔ المباح: جائز۔ روا۔</p>	<p>البسوتان: زیادہ استعمال والا گیس جو کہ گھروں میں جلایا جاتا ہے اس کا رمز CH اس میں پروٹان C-8 تیز دھواں کی خاطر داخل ہوتا ہے۔</p>

بَوْصٌ: میدان میں آگے بڑھنا..... الشیءُ:
صاف رنگ والا ہونا۔
إنباصٌ: منقبض ہونا۔
البَوْصُ: دوری (..... البَوْصُ): رنگ۔
صورتِ شکل۔ چوڑا۔ ریشم یا کتان۔ ج
أَبْوَاصُ البَوْصِ: ایک قسم کی کشتی۔
طریق (بائض): دور کا راستہ۔
بِأَص (ن) بَوْصًا: جھامیں پڑنے کے بعد
خوبصورت چہرہ والا ہونا..... بِالسَّمَكَانِ:
اقامت کرنا۔
بِاطٌ (ن) بَوْطًا: دولت مندی کے بعد محتاجی
یا معزز ہونے کے بعد ذلیل ہونا۔
البَوْطُ: کٹھالی۔ کپڑے وغیرہ میں گول
نقشہ۔ ج بَوْط۔
بِاطٌ (ن) بَوْطًا: لاغری کے بعد موٹا ہونا۔
بِاعٌ (ن) بَوْعًا: عطیہ دینے کے لئے ہاتھ
بڑھانا..... الفَرْسُ: دور دور قدم ڈالنا۔
(..... وَتَبَّوعٌ) الحِجْلُ: باع سے اندازہ
کرنا۔ دیکھنے لفظ باع و تبَّوع
للمساعي: باع پھیلا نا۔
إنباعٌ: العُرْفُ: بہنا..... الحِیةُ: اچھلنے کے
لئے لبا ہونا۔ الشَّجَاعُ مِنَ الصَّفِّ: بہادر
کا صف سے نکلنا..... الرَّجُلُ إِلَيْهِ: کشادہ
روئی سے بڑھنا۔ إنباعٌ لَهُ فِی بِضَاعَةٍ:
بیچنے میں سہولت برتنا۔
الباع: دونوں ہاتھوں کے پھیلانے کی مقدار
کہا جاتا ہے "طَوِيلُ البَاعِ وَرَحْبُ البَاعِ"
یعنی فیاض۔ "وَقَصِيرُ البَاعِ وَضِيقُ
البَاعِ" یعنی تنگی۔ ج أَبْوَاعٌ و بَاعَاتُ
و بیعان۔
البَّوعُ: مصل دونوں ہاتھوں کے پھیلانے کی
مقدار اور اسی سے مثل ہے "لَا یَعْرِفُ
كَبُوعَهُ مِنْ بَوْعِهِ": وہ کو بیع اور بوع کو نہیں
پہچانتا۔ پوری جہالت کے لئے ضرب المثل
ہے۔
بَاعَةُ الدَّارِ: گھر کا حق۔
البَّيعُ: دور دور قدم رکھنے والا۔ کہا جاتا ہے

"فَرَسٌ بَّيْعٌ": دور دور قدم رکھنے والا کھوڑا۔
بَوْعَاءُ الطَّيْبِ: خوشبو کی مہک۔
أَلْبُوعُ غُفْلِيَّةٌ: چھٹنے والے انگری جو نشی اور
سرخ رنگ کے بیوں والی امریکی انگری
بطور زینت استعمال ہوتی ہے۔
بِاعُهُ (ن) بَوْعًا: غلبہ کرنا۔ برابر ہونا۔ کہا
جاتا ہے "إِنَّكَ لَعَالِمٌ لَا بُعَاغَ" یعنی تو ایسا
عالم ہے جس کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔
تَبَّوعٌ. الذَّمُّ بِهِ: جوش مارنا..... فَلَانٌ عَلَيْهِ:
غالب ہونا۔
البَّوعَاءُ: خاک۔ غبار۔ بَوْعَاءُ الطَّيْبِ:
خوشبو کی مہک۔
بِاقٌ (ن) بَوْقًا وَبُوقًا: لڑائی بھگڑا برپا
کرنا..... القَوْمُ: بے وفائی کرنا۔ چوری
کرنا۔ باقِبُ البَائِقَةِ القَوْمُ: مصیبت پہنچانا۔
بِاقِ القَوْمِ عَلَيْهِ: اکٹھے ہو کر ظلماً قتل کرنا۔
بِاقِبُ السَّفِينَةِ: ڈوبنا۔ باقِ الشَّيْءِ: غالب
ہونا۔ ظاہر ہونا۔ خراب ہونا۔
بُوقٌ. فِی البُوقِ: بگل بجانا۔
تَبَّوُقٌ: جھوٹ بولنا..... الوَبَاءُ فِی المَاشِيَةِ:
جانوروں میں وبا پھیلانا۔
إنباقٌ عَلَيْهِمُ الشَّرُّ: برائی اور مصیبت پہنچانا
..... بہ: ظلم کرنا۔
البُوقُ: بگل۔ تری۔ زنگھا۔ ج أَبْوِاقٌ
و یبقان و بُوَقَاتُ: اور کہا جاتا ہے "جاء
بِالبُوقِ وَ نَفَخَ فِی البُوقِ" اس نے ڈنکے کی
چوٹ اعلان کیا۔ نیز اس معنی میں آتا ہے کہ
بے ہودہ بکا اور لا یعنی لنگھو کی۔
البُّوقَةُ: بارش کی سخت بوچھاڑ۔ ج بُوُقُ.
البَّاقَةُ: گلدستہ۔ ساگ۔ پات کا مٹھاج
باقات۔
البَّاقِقُ. مِنَ المَتَاعِ: بے قیمت۔ کہا جاتا
ہے "مَتَاعٌ بَائِقٌ": بے قیمت سامان۔
البَّائِقَةُ: مصیبت۔ شروفساد۔ کہا جاتا ہے
"رَفَعْتُ عَنكَ بَائِقَةَ فَلَانٍ": یعنی میں نے
تجھ سے فلاں کی لائی ہوئی مصیبت کو اٹھا دیا
ج بَوَائِقُ.

البَّوِاقُ: بگل بجانے والا۔
المُبَّوَّقُ: کلام باطل۔
البُّوقِيصَاءُ: ایک قسم کے درخت کا نام۔
بِاكَ (ن) بَوُكًا. المَتَاعُ: بیچنا خریدنا
..... الأَمْرُ: مخلوط ہونا..... القَوْمُ رَائِهِمُ:
رائے میں گڑبڑ ہو جانے کی وجہ سے کوئی
راستہ نہ پانا۔ الرَّجُلُ: مزارع ہونا۔
إنباكٌ. عَلَيْهِ الأَمْرُ: گڑبڑ ہو جانا۔
بِالِ (ن) بَوُلًا وَ مَبَالًا: پیشاب کرنا۔
بَوُلُهُ وَ أَبَالُهُ: پیشاب کرنا۔
البَّالُ: دل۔ کہا جاتا ہے "مَا حَظَرَ الأَمْرُ
بِسَالِي": یہ معاملہ میرے دل میں نہیں گزرا۔
حال و شان۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ رَجِسِي
البَّالُ": فلاں آسودہ حال ہے۔ خیال۔ کہا
جاتا ہے "كَمَا سِيفُ البَّالِ": جس چیز کا
اہتمام کیا جائے۔ کہا جاتا ہے "لَيْسَ هَذَا
مِنْ بَسَالِي": یعنی یہ ان چیزوں میں سے نہیں
جن کی میں پروا کرتا ہوں۔ "وَأَمْرٌ ذُو بَالٍ":
یعنی ایسا کام جو قابل اہتمام ہو۔
البَّالُ: سمندر کی مچھلیوں میں سے ایک مچھلی۔
و یل مچھلی۔
البَّالَةُ: شیشی۔ خوشبو کی ڈبیہ۔
البَّوَلُ: پیشاب۔ البول: لڑکا۔ عدد کثیر
بَوُلُ العَجُوزِ: شراب۔
البَّوَلَةُ: لڑکی۔
البَّوَالُ: ایک بیماری جس میں پیشاب کثرت
سے آتا ہے۔
البَّوَلَةُ: بہت پیشاب کرنے والا۔
السَّبَّوَلَةُ: وہ چیز جو پیشاب لانے کا سبب
ہو۔
السَّبَّوَلَةُ: پیشاب کرنے کا برتن۔
السَّبَّوَلَةُ أَوْ البَّوَلَةُ: رسید۔ ہنڈی۔ ج
بَوَالِصُ.
بِولغار: موٹروے وسیع اور کھلا روڈ جس کے
دونوں اطراف فٹ پاتھ اور کشادہ سرسبز
علاقہ ہو۔

البُولیس: پولیس۔ اس کی عربی شُرطی اور جَلُوَاز ہے۔

البُوم و البُومَة: ألو۔ جن ابواب (دونوں لفظ مذکورہ دونوں کے لئے مستعمل ہیں)

بَانَةُ (ن) البُونَا: فضل و زیادتی میں غالب ہونا۔

البُسُون و البُسُون: دوری۔ فصل۔ دو چیزوں کے درمیان فرق۔

البُؤنَة: چھوٹی بچی۔ البسان: ایک قسم کا درخت جس کے پتے بید

کے پتے کی طرح ہوتے ہیں اور اس کے پھل سے خوشبودار تیل نکلتا ہے اور بوجہ طویل ہونے کے اس سے قد کو تشبیہ دی جاتی ہے۔

البُوان و البُوان: خیمہ کھڑا کرنے کا ستون جن ابُونَه و بُون و بُون۔

بُونَسِيَانَة: اٹھارہ میٹر لمبا درخت جس کے لیے پتے اور انگوری طرز کے خوبصورت پھول

ہوتے ہیں زینت کیلئے بویا جاتا ہے۔ (بناباتی نام Pondiana اور اردو میں گل مہر کہتے ہیں)۔

بَاه (ف) انبوهَا: للشيء: سمحًا: کہا جاتا ہے "مباہيهُتُ وما يهتُ الأَمْرُ" میں نے

معاملہ کو نہیں سمجھا۔ بَاهَة: الدَّار: گھر کا محن۔

البُوه: ألويا ألويا کی مانند ایک پرندہ۔ البُوهَة: البُوه کا مؤنث۔ بے وقوف مرد۔

دوات میں ڈالنے کے لئے دھکی ہوئی خشک اون اور اگر دوات میں ڈال دیں تو اس کو "لِبَقَة" کہتے ہیں۔

البُؤَا: اونٹنی کا بچہ۔ اونٹنی وغیرہ کے مردہ بچے کی کھال جس میں گھاس وغیرہ بھر کر اس کی

ماں کے سامنے کر دیتے ہیں تاکہ دودھ دوہنے میں آسانی ہو۔

بَسُوِي بَسُوِي بَيْسَا: دوسرے کے فعل کی نقل کرنا۔

البُوي: تقليد۔ نقالی۔ آرزو۔ طبیعت۔ الم۔ البُيب: نابدان۔ حوض کی نالی۔

البُيب: سفہ جو لوگوں کو پانی پلاتا پھرے۔

بَات: (مض) بَيْسَا و بَيْسَاتَا و بَيْسُوْتَة و مَيْسَا و مَيْسَاتَا. فِي الْمَكَان: شب باشی کرنا

..... فَلَانَا و بِهِ و عِنْدَهُ: کسی کے پاس رات میں آنا۔ کہا جاتا ہے "بَات يَفْعَلُ كَذَا"

جبکہ کسی کام کو رات میں کرے جیسا کہ جب دن میں کرے تو کہا جاتا ہے "ظَلَّ يَفْعَلُهُ كَذَا"۔

بَات يَبْتَ بَيْسَا. الرَّجُلُ: نکاح کرنا۔ الرَّجُلُ: نکاح کرنا۔

بَيْت. الشَّيْ: رات میں کرنا۔ العَدُوُّ: شب خون ڈالنا۔ البَيْتُ: گھر بنا کرنا۔

رَايَة: رات میں سوچ بچار کرنا۔ بَيْت. الشَّيْ: اندازہ کیا جاتا۔

أَبَاتَه: شب باشی کرنا۔ کہتے ہیں۔ أَبَاتَه اللَّهُ أَحْسَنَ أَبَيْتَه: بمعنی ابانہ۔

إِسْتَبَات: رات کی خوراک مہیا کرنا۔ البَيْتُ جن بِيُوت و آيَات و جن بِيُوتَات و

أَبَابِيَّت: اور بقول بعض بِيُوتَات اور أَبَابِيَّت اشرف کے لئے مختص ہیں۔ تصغير مَبِيَّت: گھر

مکان اشرف۔ بَيْتُ الرَّجُلِي: اہل و عیال بَيْتُ الشَّعْر: وہ منظوم کلام جو دو مصرعوں پر

شامل ہو۔ بَيْتُ الْقَصِيدَة: قصیدہ کے بہترین اشعار یا وہ شعر جو شاعر کی غرض کو

مضمّن ہو۔ بَيْتُ الْمُقَدَّسِ أَوِ الْبَيْتِ الْمُقَدَّسِ: ملک

شام کے ایک شہر کا نام۔ بَيْتُ الْمَالِ: حکومت اسلامی کا خزانہ۔ بَيْتُ الْعُنْكَبُوتِ: مگزی کا جالا۔

الْبَيْتُ الْعَيْشِي أَوِ الْبَيْتُ الْحَرَامِ: کعبہ معظمہ۔ اور کہا جاتا ہے "هُوَ حَرَامِي بَيْتُ بَيْت"۔ وہ میرا پڑوسی ہے جس کا

گھر میرے گھر سے ملا ہوا ہے۔ البَيَات: شب خون ڈالنا۔

البَيْتُ وَ البَيْتَة: رات کی خوراک۔ کہا جاتا ہے "لَهُ بَيْتُ لَيْلَة"۔ اس کے پاس ایک

رات کی خوراک ہے۔ البَابِيَّت وَ البِيُوت: باسی۔ ہر وہ چیز جس پر

رات گزر چکی ہو اور وہ ٹھنڈی ہو چکی ہو۔ کہا

جاتا ہے "أَسْقِيَنِ مِنْ بِيُوتِ السَّقَاءِ" یعنی مجھ کو اس دودھ میں سے پلاؤ جو رات کو دوہا

گیا ہو اور منگیزہ میں رکھا گیا ہو یہاں تک کہ ٹھنڈا ہو گیا ہو۔

البِيُوت: ایسا معاملہ جس کی وجہ سے صاحب معاملہ رات سوچ بچار میں گزارے۔ بِيُوتُ بِيُوتَة: مضبوط دانت۔

البَيْت: رہنے کی جگہ۔ شب باشی کی جگہ۔ البَيْتَة: مِنَ البَيْسَاء: گھر اور شہر والی

عورت۔ البَيْتِيَّت: فقیر۔

بَيْحُ بَيْيْحًا. بَيْ: چیکے سے ہمید تلاتا۔ اللِّحْمُ: کاٹنا اور تقسیم کرنا۔

البِيَّاح و البِيَّاح: ایک قسم کی چھوٹی مچھلی۔ البِيَّاحَة: مچھلی کا جال۔

البِيَّحَان: راز ظاہر کرنے والا۔ بَادِيِيَّت بِيْدَا و بِيَاذَا و بِيُودَا و بِيْدُوْدَة:

ہلاک ہونا۔ بَادَتِ الشَّمْسُ بِيُودَا: غروب ہونا۔

أَبَاهَة: ہلاک کرنا۔ بَيْسَة: بمعنی غیر۔ اس کی ہمیشہ اضافت اس

جملہ کی طرف ہوتی ہے جس پر اُن داخل ہوتا ہے جیسے "فَلَانٌ كَبِيْرُ الْمَالِ بَيْدَانَه

بِخِيْلٌ" بمعنی غَيْرُ أَنَّهُ بَخِيْلٌ البَيْدَاء: بیابان۔ جن بِيْدُو بِيْدَاوَات.

البِيَادَة: فوج کے پیادے۔ واحد (بِيَادِي) البِيَادَة: گدھی۔ جنگلی گدھی۔

بِيْدَر: الحِنطَة: ڈھیر لگانا۔ البِيْدَر: کھلیان۔ خرمن۔

البِيْدَق: ایک شکاری پرندہ۔ بِيْدَاغُو جِيَا: بچوں کی تعلیم و تربیت کا فن۔

البِيْدَق: سفر کا رہنما۔ پیدل چلنے والا اور اسی سے بِيْدَق الشَّطْرَج ہے۔ یعنی شطرنج کا

مہرہ جس کو پیادہ کہتے ہیں جن بِيَادِق. البِيْرَق: جھنڈا۔ جن بِيَارِق. (و البِيْرَقْدَار):

جھنڈا بردار۔ البِيْرَمُون وَ البَارَامُون: عیسائیوں کی عبادت

کے لئے ایک خاص عید۔ (یونانی لفظ)

البیزار: بازار کھنے والا۔ کاشکار۔ بیزار۔

البزفرة: کاشکاری۔ باز کی رکھوالی۔

بیش: اللہ و جہہ: خوبصورت بنانا۔

أباش: الشجرة: جڑ بیٹھنے دینا۔

البیش: ایک قسم کی زہریلی گھاس۔

البیش: تھالہ۔ گڑھا جس میں پودہ لگا یا جاتا ہے۔ بیاباش

البیض و البیض: تنگی۔ سختی۔ کہا جاتا ہے "وقفوا فی حیص بیض" وہ لوگ تنگی اور سختی میں پڑ گئے۔

باض (ض) بیضا: الطائر: اٹلے دینا۔

صفت مذکر (بیاض) مؤنث بیاض: بیاض

بیوايض اور اسم مبالغہ (بیوض): بیوض و

بیض: باض النحر: گرمی سخت ہونا۔

فلائنا: سفیدی میں غالب ہونا۔

الشحاب: بارش ہونا۔ بالمکان: اقامت کرنا۔

بیسف: سفید کرنا اور اسی سے ہے تبیض

الکتابت ہے۔ بمعنی سودہ کو صاف کر کے

لکھنا اور "تبیسف الانیہ" بمعنی قلمی کرنا اور

کہتے ہیں "بیض اللہ و جہہ" اللہ اس کے

چہرہ کو روشن کرے۔

أباضت: المرأة: سفید بچے چلنا۔

بائضه: سفیدی میں غالب ہونے پر مقابلہ

کرنا۔

إبناض: خود پہننا۔ القوم: فنا کر دینا قوم

کے میدان میں داخل ہونا۔

إبيض و إبناض: سفید ہونا۔

البیاض: سفیدی۔ دودھ۔ بیاض العین:

آنکھ کی سفیدی۔ بیاض البیضاء: اٹلے کی

سفیدی۔ بیاض الجلد: بے بال چمڑا۔

بیاض الوجه: شہرت و نیک نامی۔ بیاض

السنہار: دن کی روشنی۔ الیوم: تمام دن

..... الأرض: عمارت سے خالی زمین

البطن: گردہ کی چربی اور کہتے ہیں "فلائن

یلبس السواد و البیاض: وہ سیاہ و سفید

پہنتا ہے اور کبھی سواد کو فساد کے لئے اور

بیاض کو صلاح کے لئے بے مثال قرار دیتے

ہیں۔

البیضاء: البیض کا واحد۔ انڈا۔ ج

بیضات اور بیض کی جمع بیوض ہے۔

خصیہ۔ خود۔ بیضة القوم: چوپال۔ بیضة

البلد: شہر کا سب سے بڑا آدمی۔ گناہ منسوب

والا۔ بیضة الدینک: مرغ کا انڈا (جو چیز

ناممکن الحصول ہو یا ایک ہی مرتبہ پائی جائے

اس کے لئے یہ لفظ بولا جاتا ہے جیسے اردو میں

بھینس کا انڈا)

..... الحبر: گرمی کی شدت..... الخذر:

لڑکی۔

..... العقر: آخری اولاد۔

الأبيض: مؤنث بیضاء: بیض: سفید۔

تلوار۔ الموت الأبيض: ناگہانی موت۔

والخيط الأبيض: کناہیہ ہے سفید صبح

سے۔ أليد البيضاء: نعمت و احسان۔ کہا

جاتا ہے "أليد فی بیضاء القبط" میں اس

کے پاس سخت گرمی میں آیا کھلمتہ فَمَا زِدْ

عَلَيَّ بَيْضَاءَ وَلَا سَوْدَاءَ: میں نے اس سے

گفتگو کی اس نے اچھا یا برا کوئی جواب نہیں

دیا۔ اللالی البیض: چاندنی راتیں۔ قمری

مہینے کی تیر ہویں، چود ہویں، پندر ہویں

راتیں۔ وایام البیض: انہی راتوں کے

دن۔ الأبیضان: دودھ اور پانی یا دودھ اور

چربی یا روٹی اور پانی اور کہا جاتا ہے "فما

زأیتہ منذ ابیضان" میں نے اس کو دو مہینے یا

دو دن سے نہیں دیکھا اور ہذا بیض من

ذاک شاذ ہے۔ قیاس أشد بیاضا ہے۔

البیضاء: چاندی۔ گہوں۔

البیاضة: بہت اٹلوں والی۔

البیضان: من الناس: سفید قوم لوگ۔

باط (ض) بیضا: لاغری کے بعد موٹا ہونا۔

البیظ: چبوتی کے اٹلے۔

باع (ض) بیضا و مبیعا: فلائنا بکتبا أو

من فلائن کتابا: بیچنا۔ خریدنا۔ صفت (بائع)

جمع باعة صفت مفعولی (بیع)

بایعة مبیاعة: باہم عقد بیع کرنا۔ باہم معاہدہ

کرنا۔ کہا جاتا ہے "بایعہ وہ بالخلافۃ و

بیوع لہ بالخلافۃ": لوگوں نے اس کی

خلافت کی بیعت کی۔

أباع: الشی: بیچنے کے لئے پیش کرنا۔

تبايعا: باہم خرید و فروخت کرنا۔

إبتاع: الشی: خریدنا۔

إبتاع: الشی: رائج ہونا۔

البیع: فروختگی۔ خرید۔

البیعة: عہد و بیان۔

البیعة: کلیسا۔ گرجا۔ یہودیوں کا عبادت

خانہ۔ بیع و بیعات و بیعات.

البیاعة: سامان فروختگی۔ بیاعات.

البیع و البیاع: بیچنے والا۔ خریدار۔

بأع بیع بیعا و بیع: الدم: جوش میں

آنا۔

البیقة: ایک قسم کی گھاس کا نام ہے۔

بیسقر: تھکتا۔ ہلاک ہونا۔ سر جھکائے ہوئے

تیز چلنا۔ غیر معلوم جگہ میں جانا۔ فی مآلہ:

جلدی سے تباہ و برباد کر دینا۔ السذار:

اُترنا۔

الأبیقر: بے خیر و بے فیض آدمی۔

البیکار: پرکار۔

البیلسان و البیلسان: ایک قسم کا درخت

ہے جس سے خوشبو دار تیل نکلتا ہے۔

البیمارستان و المارستان: شفا خانہ۔ اس

کے لئے عربی لفظ "مستشفى" ہے۔

بان (ض) بیسا و بیونا و بیونۃ عنہ: جدا

ہونا۔

بان (ض) بیانا و بیانا و بیانا: ظاہر


ہونا۔ واضح ہونا۔ صفت (بیس و بیسن) ج

أبیان و بیان و بیان: ظاہر کرنا۔ واضح کرنا۔

جدا کرنا۔ الشی: ظاہر ہونا۔ واضح ہونا۔

صفت (مبین) کہا جاتا ہے "ضربہ لہابان

زاسہ من جسدہ" اس نے اس کو مارا اور



النَّاء: حروف مہانی کا تیسرا حرف (مؤنث) تاء ات: نسبت کے لئے تانی و تاویئ و تَبَوُّیٰ کہا جاتا ہے "قَصِيْدَةٌ تَائِيَّةٌ وَ تَائِيَّةٌ وَ تَبَوُّیَّةٌ" اس کا استعمال کئی طرح سے ہوتا ہے۔ فعل کے آخر میں متکلم اور مخاطب کی ضمیر ہو کر جیسے فَمَنْتَ فَمَنْتَ وَ فَمَنْتَ وَ فَمَنْتَ وَ فَمَنْتَ وَ فَمَنْتَ اور کبھی تائیت کی علامت جیسے قَائِمَةٌ وَ ذَهَبَتْ اور کبھی جنس میں سے واحد پر ولالت کے لئے جیسے شَجَرَةٌ اور کبھی مبالغہ کے لئے جیسے فِهَامَةٌ۔ علامتہ اور کبھی یہ حرف جر ہوتا ہے اور قسم کے لئے آتا ہے اور لفظ اللہ کو جر دیتا ہے۔ جیسے تَا اللہ۔ اور کبھی اس لفظ کے علاوہ دوسرے کو کبھی جر دیتا ہے جیسے تَوَّيْتِي۔ اور کبھی کبھی صیغہ منتہی الجوع کے آخر میں نسبت پر دلالت کے لئے جیسے مَهَابِلَةٌ۔ اور کبھی حرف محذوف کے بدلہ میں جیسے زَنَادِقُهُ زَنَادِقُهُ کی جمع۔ اور افعال کے اوائل اور وسط میں بھی زیادہ کیا جاتا ہے جیسے تَقَاتَلْ وَ اقْتَتَلْ۔ اور کبھی اسماء کے آخر میں جیسے ملکوت کی تاء اور کبھی اول کلمہ کے حرف محذوف کے بدلہ میں جیسے عِظَةٌ۔ اور کبھی آخر کلمہ سے جیسے شَفَاةٌ۔ تَا: مؤنث مفرد کے لئے اسم اشارہ ہے۔ اس کا شئی انسان جِ اُولَاءِ اور اس پر "ہاء تنبیہ" بھی داخل ہوتا ہے جیسے ہاتا، ہاتان و ہولاء۔

خطاب کی حالت میں کاف لاحق کرتے ہیں۔ جیسے تَاک و تَلک و تَبک و تَلک (تَلک میں تاء کا فتح لغت رو یہ ہے) شئی کے لئے تَانک و تَانک اور جمع کے لئے اَوَلک و اَوَلک اور تَلک کے علاوہ ان سب پر ان سارے احوال میں ہاء تنبیہ بھی داخل ہے۔ التَّائِبَاتُ: بلکڑی کا صندوق اور اسی سے تَابُوتِ مِیْتِ ہے۔ کشتی۔ جِ تَوَابِیْتِ: تَائَاتَانَاةٌ وَ تَائَاتَانَاةٌ: بولتے ہوئے تلتانا۔ صفت تَائَاتَانَاةٌ..... الطِفْلُ: چلنا..... المَخَارِبُ: لڑائی میں اظہار شجاعت کے لئے اُکڑتے ہوئے چلنا۔ تَائِرَةٌ (ف) تَائِرًا: جھڑکنا۔ تَائِرَاتَانَاةٌ: دیکھنا۔ کھلی گانا..... بِالْعَصَا: لائچی سے مارنا۔ السَّيْرَةُ: ایک مرتبہ۔ ہمزہ کا ترک کثرت استعمال کی وجہ سے ہے۔ کہا جاتا ہے "فَعَلْتُ تَائِرَةً هَذَا وَ تَائِرَةً ذَاکَ" وَ "تَائِرَةٌ بَعْدَ تَائِرَةٍ" جِ تَائِرَاتٍ وَ تَبِیْرٍ وَ تَبِیْرٍ۔ تَائِرٌ (ف) تَائِرًا، الجُرْحُ: زخم کا بھر جانا۔ مندرج ہونا..... الْقَوْمُ فِي الْحَرْبِ: لڑائی میں ایک دوسرے سے قریب ہونا۔ تَبِیْقُ (س) تَبِیْقًا، الْاِنَاءُ: برتن کا بھر جانا۔ السَّرْجُلُ: غصہ سے بھر جانا۔ صفت (تَبِیْقُ وَ تَبِیْقًا) تَائِقُ، الْاِنَاءُ: برتن بھرنا۔ السَّاقَةُ: غصہ کی تیزی اور برائی کی طرف تیز

قدی۔

اَسْأَمْتُ. السَّمْرَاءُ: جڑواں چلنا۔ صفت (مُتَسِمِّمٌ): اور اگر کبھی عادت ہو تو ایسی عورت کو (میتنام) کہتے ہیں جِ مَتَائِمٌ۔ تَسَاءَمَ: أَخَاهُ: جڑواں پیدا ہونا۔ صفت (تَبِیْمٌ وَ تَبِیْمٌ وَ تَبِیْمٌ) الْقَوْبُ: تانا پانا دونوں میں دو سولی بنا۔ صفت (مفعولاً) (میتنام)

التَّوَامُ: جڑواں۔ جِ تَوَالِیْمٌ وَ تَوَامٌ مَوْنُثٌ تَوَامَةٌ کہا جاتا ہے "هَذَا تَوَامٌ هَذَا وَ هَذِهِ تَوَامَةٌ هَذِهِ" اور جب دونوں جمع ہوں تو ان کو تَوَامَاتَانِ وَ تَوَامٌ کہتے ہیں جیسے زَوْجَانِ وَ زَوْجٌ. التَّوَامُ: جوئے کے تیروں میں سے ایک تیر۔ تَوَالِیْمُ النُّجُومِ اَوِ السُّلُوكِ: ستارے یا سولی جو آپس میں گتے ہوئے ہوں۔

تَبَّ (ن) تَبًّا، الشَّيْءُ: کاشنا..... فَلَانَا: ہلاک کرنا۔

تَبًّا وَ تَبًّا وَ تَبًّا وَ تَبًّا: ہلاک کرنا اور کہا جاتا ہے "تَبَّالَهُ" یعنی اللہ اس کے لئے خسران و ہلاکت لازم کرے۔ "وَ تَبَّثْ يَدَاهُ" اس کے دونوں ہاتھ لوٹ جائیں۔

تَبَّبَ، فَلَانَا: کسی سے تبالک کہنا۔ ہلاک کرنا۔

اَتَّبَهُ: کمزور وضعیف کرنا۔ اِسْتَتَبَ، الْاَنْسَرُ: درست ہونا۔ درست طریقے سے جاری رہنا۔ السَّرْجُلُ: کمزور و عاجز ہونا..... الطَّرِیْقُ: چلنا ہوا ہونا۔

التَّبَابُ: کمی۔ نقصان۔ ہلاکت۔

تَبَّلٌ وَ تَابِلٌ وَ تَوَبَّلٌ. الطَّعَامُ: مسالہ ڈالنا۔
التَّبْلُ: بھس۔ کینہ۔ دشمنی۔ کہا جاتا ہے
”بَيْنَهُمَا تَبْلٌ“ ان دونوں کے درمیان
عداوت ہے۔ تَبَّلٌ وَ تَوَبَّلٌ۔
التَّابِلُ وَ التَّابِلُ وَ التَّابِلُ: مسالہ۔
التَّبَالُ: مسالہ والا۔ مسالہ بیچنے والا۔
التَّوَبَّلُ: مِنَ النَّحَاسِ وَ الْحَدِيدِ: ذرات
جو کوٹنے میں گریں۔
تَبَّنَ (ض) تَبَّنَا. المَدَانَةُ: بھوسہ کا چارہ
دینا۔
تَبَّنَ (س) تَبَّنَا وَ تَبَّنَا: سمجھ دار و ذکی
ہونا۔ صفت (تبن)۔
تَبَّنَ: بھوسے کے ذخیرہ میں بھوسہ رکھنا۔
التَّوَبَّلُ: باریک بین ہونا۔
التَّبْنُ: جاگھیا پینٹنا۔ لنگوٹ باندھنا۔
التَّبْنُ: بھوسہ واحد (تَبْنَةٌ)۔ تَبْنَانٌ وَ تَبْنُونُ:
بڑا پیالہ۔
التَّبْنِيُّ: بھوسہ کے رنگ کا۔
التَّبْنَانُ: بھوسہ بیچنے والا۔
التَّبْنَانُ: لنگوٹ۔ جاگھیا۔ ٹیکر۔
تَبَّنَا (ض) تَبَّنَا: غزوہ کرنا اور مال قیمت
حاصل کرنا۔
التَّبْرُ: قوم تاتار۔ واحد (تَبْرِيٌّ) کہا جاتا ہے
”بِنَاءِ الْقَوْمِ (تَبْرِيٌّ وَ تَبْرِيٌّ)“ لوگ پے در
پے آئے اس کی اصل وَ تَبْرِيٌّ ہے
التَّبْنُ: تمباکو (یہ لفظ ترکی الاصل ہے اس کے
معنی دھوئیں کے ہیں)۔
تَبَجْرَ (ن) تَبَجْرَ وَ تَبَجْرَا وَ تَبَجْرُو
تَبَجْرُوا وَ تَبَجْرُوا: سوداگری کرنا۔
التَّبَجْرَةُ: سوداگری۔ سرمایہ۔
التَّبَجْرُ: سوداگری۔ عرب شراب بیچنے والے کو
تاجر کہا کرتے تھے۔ تَبَجْرًا وَ تَبَجْرًا
تَبَجْرًا اور کہا جاتا ہے ”بِضَاعَةِ تَابَجْرَةَ“ رائج
سامان۔ تَبَجْرًا۔
التَّبَجْرُ: سوداگری۔ سرمایہ اور اسی سے ہے
”صَنَعُهُ فِي مَتَجَرِّ الْحَمْدِ زَانِحَةٌ“۔
الْمَتَجْرَةُ: منڈی۔ کہا جاتا ہے ”أَرْضُ

جَاتَا“ تَبَّعْتُ أَحْوَالَهُ“ میں اس کے
احوال کو ٹوٹا کرتا ہوں۔
تَبَّعْتُ الْأَخْبَارَ: ایک دوسرے کے پیچھے
آنا۔
إِسْتَبَعَهُ: پیچھے چلنے کو کہنا۔
التَّبَاعُ: من مَذْكَرٍ اتَّبَعَهُ مِنْ مَوْثِقٍ.
التَّبِيعُ: تابع۔ عاشق۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ تَبِيعَ
الْكُورِ“ وہ فیاضی کا عاشق ہے۔
التَّبِيعُ: بہت تابعداری کرنے والا۔
التَّبِيعَةُ: تَبِيعَاتٌ وَ التَّبِيعَاتُ: تَبِيعَاتٌ:
تاوان۔ ڈانڈ۔ کہا جاتا ہے ”لِهَذَا الْفِعْلِ
تَبِيعَةٌ“ یعنی اس فعل سے ضرر لائق ہونے والا
ہے۔
تَبَّعَ: بچن کے بادشاہوں کا لقب۔ تَبَّعَ
التَّبَاعَةَ وَ التَّبِيعَ: سایہ۔ شہد کی بڑی کھٹی تَبَّعَ
تَبَابِيعَ.
التَّبِيعُ: مددگار۔ پیروی کرنے والا۔ تَبَّعَ تَبَابِيعَ
وَ تَبَابِيعَ.
التَّبَابِيعَةُ: تابع کا مؤنث۔ نوکرانی۔ خادمہ۔
جنیہ۔
التَّبَابِيعِيُّ: تابع اور تابعہ کی جانب نسبت۔ وہ
شخص جس نے بحالت ایمان صحابہ کرام رضی
اللہ عنہم کی زیارت کی اور حالت ایمان ہی پر
انتقال ہوا ہو۔
التَّبَابِيعُ: تابع کا مصدر اور کبھی صفت کے طور
پر استعمال کیا جاتا ہے جیسے ”شَهِدَ نَاسَهُنَ
إِيْمَانًا تَبَابِيعًا“۔
الآتِبَاعُ: بھس کسی ایسے کلمہ کا لانا جو ماقبل
کے کلمہ کے ہم وزن ہو۔ جیسے کثیر بشر۔
خیث۔ نبیث۔
التَّبَابِيعِيُّ: تمباکو۔
تَبِيعَةُ: بیٹن کی قسم سے مختلف رنگوں کے
پتھروں والا پودا جو کہ زمینت کے لئے
استعمال ہوتا ہے۔
تَبِيعَةٌ (ن) تَبِيعَاتٌ وَ تَبِيعَاتٌ: الحُبُّ أَوْ الذَّهْرُ:
بیمار کر دینا۔ عقل کو ضائع کر دینا۔ صفت
مفعولی (مَتَّبِعٌ وَ تَبِيعٌ) ہے۔

التَّبِيعَةُ: سخت حالت۔
التَّبَابِيعُ: بوڑھا اور کمزور مرد۔ کہا جاتا ہے
”مُحْتٌ شَابًا فَصَبْرٌ تَابِيًا“ میں جوان تھا اور
اب بوڑھا ہو گیا۔ تَبَابِيعُ.
تَبِيعٌ. التَّبِيعُ: بوڑھا ہونا۔
تَبِيعٌ (س) تَبِيعًا: ہلاک ہونا۔
تَبِيعَةٌ (ض) تَبِيعًا: ہلاک کرنا۔ توڑنا۔
تَبِيعٌ. عَنِ الْأَمْرِ: پیچھے ہٹنا۔ بازار ہٹنا۔
تَبِيعَةٌ: ہلاک کرنا۔
التَّبَابِيعُ: فوجی جماعت۔ تَبَابِيعُ.
التَّبَابِيعُ: ہلاکت۔
التَّبِيعُ: سونے کا بغیر ڈھلا ہوا ڈھیلا۔ واحد
تَبِيعَةٌ.
التَّبِيعَةُ: سر کی بھوسی (ہسیرہ) میں ایک لغت
ہے۔
التَّبَابِيعُ: ہلاکت شدہ۔ ناقص۔
تَبَّعَهُ (س) تَبَّعًا وَ تَبَابِعًا وَ تَبَابِعَةً:
پیچھے چلنا۔ ساتھ چلنا۔ فرمانبردار ہونا۔
صفت (تَبَّعَ): واحد اور جمع دونوں کے لئے
آتا ہے۔ تَبَّعَ تَبَابِعًا وَ تَبَابِعَةً: تَبَّعَ وَ تَبَّعَ وَ تَبَّعَ
وَ تَبَابِعًا وَ تَبَابِعًا. التَّبَابِيعُ: نوکر۔ خادم۔
جن۔ تَبَّعَ وَ تَبَّعَ الشَّيْءُ: پیروی کرنا۔ نشان
قدم پر چلنا۔
تَبَّعَهُ: پیروی کرنا۔ تَبَّعَ بِهِ كَهَذَا: لائق کرنا۔
تَبَابِعُ. يَتَّبِعُ الْأَعْمَالَ: لگا تار کرنا۔
التَّبَابِيعُ: اچھی طرح بیان کرنا۔ الْعَمَلُ:
محکم کرنا۔ مَضْبُوطٌ كَرْنَا... فَلَا نَعْمَلُ
الْأَمْرَ: موافقت کرنا۔ کہا جاتا ہے ”تَبَابِيعُ
بِمَا لَهْ عِنْدِي“ یعنی اس کا جو کچھ میرے پاس
تھا اس کا اس نے مجھ سے مطالبہ کیا۔
تَبَّعَهُ: پیروی کرنا۔ لائق ہونا۔ تَبَّعَهُ كَهَذَا:
لائق کرنا۔
التَّبَابِيعُ (ع ج): تناسب رات ایک مقدار
کے زائد ہونے سے دوسری مقدار زائد ہو
جائے اور اس کے کم ہونے سے دوسری کم ہو
جائے۔
تَبَّعَ. الْأَمْرَ: دیر تک تلاش و جستجو کرنا۔ کہا

<p>التَّرْقُوقَةُ: ہنسل کی ہڈی۔ ج" الترقاہی و الترائق" کہا جاتا ہے "ترقاہ ترقاہ" یعنی اس نے اس کی ہنسل کی ہڈی پر مارا۔ "وَبَلَغَتْ رُوحَهُ التَّرَاقِي" وہ قریب الموت ہوا۔</p>	<p>تَرَع (ع) تَرَعًا: برائی کی طرف سبقت کرنا۔ صفت (تَرِع و تَرِيح)..... الكوزو الخوض: بھر جانا۔ صفت (تَرَع) تَرَعَهُ (ف) تَرَعًا. عَنِ الْأَمْرِ: کسی کام سے بھیرنا۔ باز رکھنا۔</p>	<p>أَتَرَزَّ. الشَّيْءُ: سخت کرنا۔ خشک کرنا۔ کہا جاتا ہے "الْحَجْرِيُّ يُتَرَزُّ لِحَمِّ الدَّابَّةِ" دوڑ جانور کے گوشت کو سخت کر دیتی ہے۔ التَّارِزُ: سخت وقوی اور اسی سے ہے "إِنَّ عَجَبِنُكُمْ لَتَارِزٌ" تمہارا خیر سخت ہے۔ خشک چیز جس میں روح نہ ہو۔ مردہ۔</p>
<p>تَرَكَّةُ (ض) تَرَكًا و تَرَكَتًا و تَرَكَتًا: چھوڑنا۔ تَرَكَتًا: مصلحت کرنا۔ تَرَكَتًا: تَرَكَتًا. الْأَمْرُ بَيْنَهُمْ: چھوڑنا۔</p>	<p>تَرَعُ. الْبَابُ: دروازہ بند کرنا۔ تَرَعُ: الْإِنَاءُ: برتن بھرنا۔ تَرَعُ: الْيَبِيءُ بِالشَّرِّ: کسی کو جلدی سے برائی پہنچانا۔</p>	<p>التَّرَازُ: اچانک موت۔ تَرَسَهُ: ڈھال پہنانا یا دینا۔ (..... تَرَسُ) : ڈھال لگانا یا ڈھال سے اپنے آپ کو چھپانا</p>
<p>التَّرِيكَةُ وَ التَّرِيكَةُ: شتر مرغ کا چھوڑا ہوا انڈا۔ انڈے کا خول جس میں سے بچہ نکل چکا ہو۔ خود۔ وہ عورت جس سے کوئی شادی نہ کرے۔</p>	<p>التَّرَعَةُ: دروازہ۔ کہا جاتا ہے "فَسَخَّ تَرَعَةَ السَّارِ" اس نے گھر کا دروازہ کھولا۔ باغ کی طرف جانے والی نالی۔ سیڑھی کا پایہ نمبر کے درجے۔ حوض کا دہانہ دو دریاؤں یا دو سمندروں کے درمیان گہری نہر۔ ج" تَرَعُ. التَّرَاعُ: دربان (..... وَالْأَتْرَاعُ) مِنَ السَّيْلِ: وہ سیلاب جو ادنیٰ کو بھر دے۔</p>	<p>التَّرَاجِلُ وَ الْفَارِسُ وَ الْأَكْشَفُ وَ التَّارِسُ" پیدل اور سوار اور بے ڈھال والا اور ڈھال والا برائیں۔ التَّرَسُ الْبَابُ: دروازہ بند کرنا۔</p>
<p>التَّرِيكَةُ وَ التَّرِيكَةُ: چھوڑی ہوئی چیز اور اسی سے "تَرَكَةُ الْمَيْتِ". التَّرِيكُ: چھوڑا ہوا..... مِنَ الْكُرْمِ أَوْ الشَّخْلِ: خوش یا کچھا۔ جس میں سے کھا کر تھوڑا چھوڑ دیا گیا ہو۔</p>	<p>التَّرَعَةُ: جنگلی کبوتر۔ تَرِفُ (س) تَرَفًا وَ تَرَفًا: خوشحال ہونا۔ آسائش سے زندگی بسر کرنا۔ صفت (تَرِفُ وَ تَرِيْفُ)۔</p>	<p>التَّرَسُ: ڈھال۔ ج" التَّرَاسُ وَ التَّرَاسُ وَ التَّرَاسُ وَ التَّرَاسُ: آفتاب کی نکلیا۔ کہا جاتا ہے "غَابَ تَرَسُ الشَّمْسِ"۔ التَّرَاسُ وَ التَّرَاسُ: المَيْرَسَةُ ج" التَّرَاسُ وَ التَّرَاسُ: دروازے کے پیچھے لگانے کا ڈنڈا۔ دیوار وغیرہ جس کے پیچھے چھپ کر دشمن سے بچیں۔</p>
<p>التَّرَاكُ: بہت چھوڑنے والا۔ نَوْمٌ: بجلی سے چلنے والی ریل گاڑی۔ تَرَمَسٌ: جنگ سے غائب رہنا۔</p>	<p>التَّرَفَةُ وَ التَّرَفَةُ: التَّرَفَةُ: سرکش بنا دینا۔ خراب کر دینا۔ التَّرَفُ التَّرَفُ: سرکشی و بغاوت پر اصرار کرنا۔</p>	<p>التَّرَاسُ: ڈھال بنانے والا۔ ڈھال والا۔ التَّرَاسَةُ: ڈھال سازی۔</p>
<p>التَّرَمَسُ: ایک قسم کا غلہ جو کڑوا ہوتا ہے اور چند دن پانی میں بھگو کر استعمال کیا جاتا ہے۔ التَّرَمُوسُ: تھرموس فلاسک۔</p>	<p>التَّرَفَةُ: نعمت و آسائش۔ خوش ذائقہ کھانا۔ پیدا کئی طور پر اوپر کے ہونٹ کے درمیان میں ابھار۔</p>	<p>التَّرَاسُ: ڈھال بنانے والا۔ ڈھال والا۔ التَّرَاسَةُ: ڈھال سازی۔</p>
<p>التَّرَمُوسُ: تھرموس فلاسک۔ التَّرَمُوسُ: تھرموس فلاسک۔ جسم کی حرارت چیک کرنے کا آلہ۔</p>	<p>التَّرَفَةُ: نعمت و آسائش۔ خوش ذائقہ کھانا۔ پیدا کئی طور پر اوپر کے ہونٹ کے درمیان میں ابھار۔</p>	<p>التَّرَاسُ: ڈھال بنانے والا۔ ڈھال والا۔ التَّرَاسَةُ: ڈھال سازی۔</p>
<p>التَّرَوُجُ: لیمو۔ لیمو کا درخت۔ التَّرَوُجَانُ: خوشبودار پھل جس کا خوشبودار شربت استعمال ہوتا ہے۔</p>	<p>التَّرَفَةُ: نعمت و آسائش۔ خوش ذائقہ کھانا۔ پیدا کئی طور پر اوپر کے ہونٹ کے درمیان میں ابھار۔</p>	<p>التَّرَاسُ: ڈھال بنانے والا۔ ڈھال والا۔ التَّرَاسَةُ: ڈھال سازی۔</p>
<p>التَّرَافِيسُ: کسی شہر یا ملک سے سامان تجارت گرا دے یا رجوع اجازت نامہ فری دیا جاتا ہے۔ التَّرَمُوسَةُ: سرنگ۔ تھخانہ۔</p>	<p>التَّرَفَةُ: نعمت و آسائش۔ خوش ذائقہ کھانا۔ پیدا کئی طور پر اوپر کے ہونٹ کے درمیان میں ابھار۔</p>	<p>التَّرَاسُ: ڈھال بنانے والا۔ ڈھال والا۔ التَّرَاسَةُ: ڈھال سازی۔</p>

التواض: چاندی کے مہرے۔
 التواض: گدھا۔
 الترویح: لیو۔ لیوکا درخت۔
 ترة (س) ترہا: باطل چیزوں میں پھنسا۔
 الترهة: باطل۔ مصیبت۔ ج ترہات الترهات: چھوٹے راستے۔
 الترة: باطل۔ جن تواریخ۔
 تری (ض) تریا: فی الأمر: دیر کرنا۔
 التریاق: دوا جو دافع زہر ہو (والتریاق): شراب۔
 تسع (ف ض) تسعا: القوم: نواں ہونا۔ اپنے کو ملا کر نواں بنا دینا۔ قوم کے مال کا نواں حصہ لینا۔۔۔۔۔ المال: نواں حصہ لینا۔
 اتسع: القوم: ہونا۔ التسعة: نو (۹) موٹ۔ تسع کہا جاتا ہے تسعة رجال وتسع نساء وتسعة عشر رجلاً وتسع عشرة امرأة۔ ج تسعات۔
 التسع و التسیع: نواں حصہ۔ تسع: کی جن اتساع۔
 التاسع: نواں۔
 تسعون: نوے (۹۰)
 التسع: مہینہ کی ساتویں آٹھویں نویں راتیں۔
 تساع: نونو: کہا جاتا ہے "جاء القوم تساع" قوم کے لوگ۔ نونو آئے (یہ غیر منصرف ہے)
 التساعی: نونو والا۔
 التساعیة: عیسائیوں کی نماز جو نونو ادا کی جاتی ہے مقررہ عیدوں سے پہلے۔
 التساوعاء: مہینہ کا نواں دن حبل (منشوع) نولاری کی بیٹی ہوئی رتی۔
 تسریس الاول: ماہ اکتوبر (ترکی مہینے کا نام)
 تسریس الثانی: ماہ نومبر۔ ج تساریس: تساریس کو فصل خریف پر دلالت کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

التساریس: موسم خزاں پر آگاہی کے لئے جو کلمہ استعمال کیا جاتا ہے۔ عام لوگوں کے نزدیک اس کا معنی توت کے پتے جو کہ جانوروں کو ان تمبر اکتوبر میں استعمال کرائے جاتے ہیں۔
 تسع (ن) تسعة وتسعا: ڈھیلا ہونا۔ تسع کرنا۔
 تسع (س) تسعا: مشقت میں پڑنا۔ تھکانا۔ صفت (تسعب)۔
 اتسعه: تھکانا۔ اتسعب الاناء: بھرنا: القوم: تھکے ہوئے جانوروں والے ہونا۔
 التسع: مشقت۔ تھکن۔ ج اتساع۔
 التسعب و المتسعة: تھکن۔ تھکانا۔ تھکن کی جگہ۔ باعث تھکن۔ کہا جاتا ہے "استخراج المعصی متعبه للخواطر" معصہ کا حل کرنا طبیعت کی تھکن کا باعث ہوتا ہے۔ ج متاع۔
 تسعتہ: جھنجھوڑنا۔ حرکت دینا۔ تسعت فی الكلام: ہرکانا۔
 التساع: خوفناک جھوٹی خبریں۔
 تسع (ف) وتسع (س) تسعا و تسعا: ہلاک ہونا۔ پھسلنا اور منہ کے بل گرنا۔ صفت (تسع و تاعس و تسع) تسع و اتسعه: اللہ۔ بد نصیب بنانا۔ ہلاک کرنا۔ کہا جاتا ہے "تسعاله" یعنی اللہ اس کو ہلاک کرے۔
 التسع: ہمیں ہلاکت۔ بدی۔ منزل۔
 التسعة: سختی سے گرنا۔
 المتسعة: سبب ہلاکت۔ کہا جاتا ہے "هذا الامر من حسنة متسعة" یہ معاملہ باعث خوشی و ہلاکت ہے۔
 تعص (س) تعصا: زیادہ چلنے سے پٹھوں میں درد ہونا۔
 تعيب (س) تعيبا: ہلاک ہونا۔
 اتعبه: ہلاک کرنا۔
 التسع: ہلاکت۔ میل کچیل۔ بھوک۔ عیب و فساد۔

التغاب والتغيب: گناہ۔ فحج۔ کہا جاتا ہے "سافیه تغبة" یعنی اس میں کوئی ایسا عیب نہیں جس کی وجہ سے اس کی شہادت روکی جائے۔
 تغرت (ف) تغرا و تغورا: السحابة: پانی بہہ پڑنا۔ تغر العروق: کثرت سے خون جاری ہونا۔
 تغرانسا: القدر: جوش مارنا۔ ابلنا۔ جرخ (تغار) کثرت سے خون بہانے والا زخم۔
 تغفه: کسی سے تھو تھو کہنا۔
 التغف: ناخن کا میل۔ ج تغفة۔
 التغان: وقت۔ کہا جاتا ہے "اتينك بيفانہ و علسی تغانہ" میں مناسب وقت میں تمہارے پاس آیا۔
 التغاف: دودھ والی نبات جس کا تناخول دار اور اس کے پتے دوہرے ہوتے ہیں پتے توڑنے پر دودھ نکلتا ہے۔
 التغفة: حقیر و ذلیل عورت۔
 التغففة: ایک قسم کا چھوٹا کیزا جو چمڑے کو خراب کر دیتا ہے۔
 تغفی (س) تغفا: سخت غضبناک ہونا۔
 تغفئة و تغفئة: الشی: وقت۔
 تغفث (س) تغفثا: میل کچیل غالب ہونا۔ صفت (تغفث) کہا جاتا ہے "قطعی تغفثہ" اس نے میل کچیل کو دور کیا۔
 تغفث: اللیماء مکانہ: آلودہ کرنا۔
 التفاح: سبب۔ سبب کا درخت۔ واحد تفاحة ج تفافیح۔
 التفاحان: دونوں ران کے سرے۔
 المتفحة: سبب کی پیداوار کی جگہ۔
 اتفسر: الشجر: کوئٹھیں لگانا۔۔۔۔۔ السرجل: ناک کے بالوں کا ہونٹ کے گڑھے تک لمبا ہونا۔
 السرجل (التافر و التفر و التفران): میلا۔ گندا۔
 التفر و التفر و التفرة: اوپر کے ہونٹ کا گڑھا۔
 التفرة: الشجر: کوئٹھیں۔ و التفرة: درخت

کے نیچے اگنے والی گھاس۔ یا وہ گھاس جس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے جانور چرت سکے۔

التَفْرِوقُ: خلاف خرما۔

تَقْل (ن ض) انفلا: تھوکتا۔

تَقْل (س) انفلا: الرَّجُلُ: تیل و خوشبو نہ لگانے کی وجہ سے بدبودار ہونا۔ صفت (تَقْل) مَوْت (تَقْلَة و مِتْقَل)۔

انْفَلَّ: بدبودار کر دینا۔

التَّفْلُ وَالتَّقْلُ وَالتَّقْلُ: لومزی۔ مَوْت تَنْفَلَة۔

تَقِيَة (س) انفها و تفوها: الشئ: کم ہونا۔

گھٹیا ہونا۔ حقیر ہونا۔ کہا جاتا ہے "تَقِيَة عَطَاءِ فُلَانٍ" فلاں کی داد و دہش کم ہے (.....) تَفَاهَة الطَّعَامُ: بے مزہ ہونا۔ صفت (تَقِيَة و تَفِي ه) (.....) تَفْوَاهُ الرَّجُلُ: کم عقل ہونا۔

صفت (تَفِي ه) انفه: الشئ: کم کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ "أَعْطَيْتُ فَانْفَهْتُمْ" تم نے دیا اور کم دیا۔

تَقْن: الأَمْرُ: مضبوطی سے کرنا۔

تَقَنَّ: الأَرْضُ: نپید اور زیادہ ہونے کے لئے سینچنا۔

البَقْنُ: طبعیت۔ کہا جاتا ہے "الفَصَاخَةُ مِنْ تَقْنِيَة" فصاحت اس کی طبی چیز ہے۔ گارجو خشک ہو کر پھٹ جائے۔ حوض کا پتہ گدلا پانی رَجُلٌ (تَقْن و تَقْن) کام کا اچھی طرح

کرنے والا۔ کام میں ماہر۔ جِ انقان۔

التَّقْنَةُ: حوض کا پتہ گدلا پانی۔

تَقْنَعُ: چھپانا۔ اکام بولنا اور واضح نہ کرنا۔

التَّقْنُضَةُ: زبان ہکانا۔

التَّقْنِيَةُ: کھٹیک۔

تَقِي (دیکھئے مادہ وقی)

تَحْكَة (ن) تَحْكَا: روند کر پھل دینا۔ تَحْكَة النَّبِيْذِ: بدبو ش کر دینا۔

تَك (ن) تَكُو كَا: الرَّجُلُ: لاغر ہونا۔ بے وقوف ہونا۔ صفت (تَاك) جِ تَاكُوْن و تَكْكَة و تَكَّاك و تَكَّاك۔

اِسْتَكَّ: اليَكَّة: پانچامہ میں ازار بند ڈالنا۔

اليَكَّة: ازار بند۔ جِ تَكَّاك۔

اَلْمَيْكُ: پانچامہ میں ازار بند ڈالنے کی سلائی۔

تَكَّا: (دیکھئے مادہ وک ا)

تَكْكَا: تَكْكَا: روند کر پھل دینا۔ تَكْرے تَكْرے کر دینا..... السَّاعَة: تک تک کرنا۔

تَكَل: (دیکھئے مادہ وک ل)

التَّكْنِيْكُ وَالتَّكْنِيَةُ: کسی کام میں کامیابی کے لئے ذرائع استعمال کرنا۔

تَلَّه (ن) تَلَّا: بچھاڑنا..... الشئِ اليه: دفع کرنا۔ النَحْلُ فِي البِنْرِ: کونوں میں رسی لگانا۔ الشئِ فِي يَدِيه: رکھنا۔ کہا جاتا ہے "تَلَّه (بَيْتًا) سُوءًا" اس نے اسے بُرے فعل کی بہت لگائی۔ اليه: عاجزی کرنا۔

تَلَّه (بَيْتًا) سُوءًا: اس نے اسے بُرے فعل کی بہت لگائی۔ اليه: عاجزی کرنا۔ تَلَّه (بَيْتًا) سُوءًا: اس نے اسے بُرے فعل کی بہت لگائی۔ اليه: عاجزی کرنا۔

اَتَلَّ: الذَّايَة: باندھنا۔ كَهْنِيْتَا..... المَنَاعُ: بچکانا۔

التَّلَالُ وَالتَّلَالَة: گمراہی۔

التَّلُّ: مِنَ الأَرْضِ: چھوٹا ٹیلہ۔ جِ تَلَال و تَلُول و اِحْد تَلَّة۔

البِئْسَةُ: حالت۔ (.....) وَالتَّلَّة: لینے کی حالت۔ گرنے کی حالت اور کہا جاتا ہے "فِي خُلُقِيَة تَلَّة" اس کی عادت میں کاہلی ہے۔

التَّلِيْلُ جِ اِتَّلَّه و تَلَّل و تَلَّل: گردن..... جِ تَلِّي: بچھاڑنا۔

المِثْلُ: وہ چیز جس سے کسی کو پچھاڑا جائے۔

کہا جاتا ہے "رُمُحٌ مِثْلٌ" سیدھا اور سخت نیزہ قومی و مضبوط آدمی یا اونٹ۔

اِتَّلَابُ اِتَّلِيْنَا: الأَمْرُ: درست ہونا

..... الحِمَارُ: سرو سبز اٹھانا۔ کہا جاتا ہے "قِيَاسٌ مُثْلِيْبٌ" یعنی قیاس مطرود "طَرِيْقٌ مُثْلِيْبٌ" سیدھا لمبارا۔

التَّلْبُ: نقصان۔ کہا جاتا ہے "تَبَّالَه و تَلَّبَا" یعنی اللہ اس کے لئے نقصان و ہلاکت کو لازم

کرے۔

المِتَّالِبُ: ہلاکت کی جگہیں۔

تَلَّدَ (ض ن) تَلَّوْذًا: المَسَالُ كَمَا لَابِل

وَالغَنَمُ: خاندان میں پرانے زمانے سے مال کا ہونا۔ صفت (تَالِدٌ وَتَلَّدٌ وَتَلَّدٌ وَتَلَّدٌ وَتَلَّدٌ) اور اس کے خلاف طَارِقٌ وَطَرِيْقٌ ہے۔ (.....) وَتَلَّدَ (س) فِی القَوْمِ وَبِالمَكَانِ: اقامت کرنا۔ کہتے ہیں "تَلَّدَ فُلَانٌ عِنْدَنَا" یعنی فلاں کے ماں باپ

ہمارے ہی یہاں پیدا ہوئے۔

اَتَلَّدَ الرَّجُلُ: موروٹی مال والا ہوا۔ مال حاصل کرنا۔

تَلَّدَ: مال جمع کرنا۔

التَّلِيْسُ كُتُوبٌ: دور بین (جدید) اس کے لئے عربی مرقب ہے۔

تَلَّعَ (ف) تَلَّعَا وَتَلَّوْعًا: النَّهَارُ: دِنٌ جِ رَحْنَا: الضَّحَى: چاشت کا وقت ہونا۔

..... الرَّجُلُ أَوِ الطَّبِيْبُ: سر باہر نکالنا۔

تَلَّعَ (س) تَلَّعَا: الأَنَاءُ: بھر جانا۔ تَلَّعَا وَتَلَّعَا: عُنُقُهُ: گردن لمبی ہونا..... الرَّجُلُ كَبِيْرٌ: گردن یا لمبے قد والا ہونا۔ صفت (اتلّع و تَلَّع)

اَتَلَّعَ وَتَلَّعَ وَتَلَّعَ: فِي مَشِيَّتِي: چلنے میں گردن لمبی کرنا۔

التَّلَّعُ: ارد گرد بہت دیکھنے والا۔ اِنَاءٌ تَلَّعٌ: بھرا ہوا برتن۔

التَّلَّعَةُ: بلند زمین۔ پست زمین۔ جِ تَلَّعَات و تَلَّاع و تَلَّع.

التَّلَّعَةُ: کسی کا بادبان۔ جِ تَلَّعَات.

التَّلْفِرَافُ: تَلُّرٌ: گراف۔ تیار۔

تَلَفَ (س) تَلَّفَا: ہلاک ہونا۔ بر باد ہونا۔

اَتَلَّفَا: ہلاک کرنا۔ بر باد کرنا۔ فنا کرنا۔

التَّلْفِيْفَةُ: ہلاک ہونے والی چیز۔

التَّلْفُ وَالتَّلْفُ: بہت تلف کرنے والا۔

المِتَّلَفَةُ وَالمِتَّلَفَةُ: ہلاکت کی جگہ۔ ہلاکت کا سبب۔ چھٹیل میدان۔

<p>تَمَامٌ: الْقَوْمُ: سب کا آنا۔ اسْتَمَمَ: الشَّيْءُ: پورا کرنا..... الشَّيْءُ: پورا کرنے کو کہنا۔</p>	<p>تَسَالَتْ: الْأُمُورُ أَوْ الْخَيْلُ: ایک دوسرے کے پیچھے ہوتا۔ کہا جاتا ہے "جَانَتْ الْخَيْلُ تَقَالِيًا" یعنی پے در پے آئے۔</p>	<p>تَأْمُرُ بَيْنَ: مِثْلُ دِيْرَانِ الْبُلْبُلَةِ: دوسرے دیکھنا۔ بَلَكٌ: مَوْتٌ بَعِيدٌ كَلِمَةُ اسْمِ اِشَارَةٌ۔ السَّلْمُ: زَمِينٌ فِي مِلِّ كِي بِنَائِي هُوَتِي لَيْكِي جَاتِلَام۔</p>
<p>الْتِمُّ: بِطِكِي اَيْكِي قِصْمِ جِسْمِ كِي گِرُونِ لِي هُوَتِي ہے۔ الْتِمُّ: كَلْبَارَا۔ الْبَدْرُ الْيَمُّ: مَاہِ كَامِل۔</p>	<p>تَالَاةٌ: مَوَافَقَتٌ كَرْنَا۔ تَابِعِدَارِي كَرْنَا۔ اسْتَلَاهُ: الشَّيْءُ: پِچھے كَرْنِے كُو كِهْنَا۔ ه: اِنْتِظَارُ كَرْنَا۔</p>	<p>السَّلْمُ: سَبْرُ خَطِّ لُكَا۔ كَاشْتِكَارُ۔ سِنَارُ۔ سِنَارِي كِي لِي دِهُونِي جَاتِلَام۔ الْتَمُّودُ: سِيوَدِيُونِ كِي اِحْكَامِ كِي كِتَابُ۔ "تَلْمَدُو تَلْمَدُ" لِفْلَانٍ: شَاگِرُو هُوْنَا۔</p>
<p>الْتِمَامُ بِشَلِثِ النَّاءِ وَالْاِغْلَابِ الْفَتْحِ: كَمَالُ۔ وَهِي شَيْءٌ جِمْسِ سِي كِي شَيْءُ كُو پُورَا كِيَا جَاے اور اِي مَعْنِي مِيں (تَمَّ وَتَمَّ وَتَمَّ وَ تَمَّ) تَمَامَةٌ وَ تَمَامَةٌ: چَانْدِ كِي پُورَا هُونِے كِي رَاَتِ اور كِهَا جَاتَا ہے "بَدْرُ تَمَامٍ وَ بَدْرُ تَمَامٍ" "لَيْلَةُ التَّمَامِ" جَاڑے كِي لِي رَاَتِ۔</p>	<p>السَّالِي: پِچھے چلنے والا۔ مِيدَانِ گھوڑ دَوْرَكَا چُوْتَا گھوڑا۔ جَاتِلِيَاتِ۔ التَّالِيَةُ: التَّالِي كَالْمَوْتِ۔ جَاتِلِيَالِي۔ التَّوَالِي: سَرِيْنِ۔ تَوَالِي الْخَيْلِ: گھوڑے كِي پِچھے حصے۔ یعنی دَم اور نَاگ۔ التَّلَاءُ: ذَمُّ۔</p>	<p>تَلْمَدُو تَلْمَدُ الْوَلَدُ: شَاگِرُو بِنَا تَا۔ التَّلْمِيذُ: شَاگِرُو۔ جَاتِلَامِيذُ وَ تَلَامِيذُهُ۔ التَّلْتِنَةُ وَ التَّلْتُونَةُ: حَاجَتُ۔ تَلَانٌ: اَبْجِي۔ تَلِيهٌ (س) تَلِيهَا: حَيْرَانٌ هُوْنَا..... الشَّيْءُ: تَلْفٌ هُوْنَا۔ تَلِيهَةٌ وَ تَلِيهَةٌ: بَهُولَانَا اور كِهَا جَاتَا ہے "زَجَلٌ تَلَاةُ الْعَقْلِ وَ تَمْلُوهُ الْعَقْلُ" مَرُو عَقْلٌ۔ زَاكِلٌ شَدُهُ۔ آتَلَةُ الشَّيْءِ: بَرِيَادُ كَرْنَا۔ تِهَاهُ كَرْنَا۔ تَلَا (ن) تَلَوْنَا: پِچھے چلنا..... عِنْدَهُ: چُجُوْرُو دِيْنَا۔ كِهَا جَاتَا ہے "تَلَا عِنْدَ قَوْمِيه" اِس نِي اِيْتِي تُو م كَا سَا تَه چُجُوْرُو دِيَا اور پِچھے رَهَا كِيَا۔ (..... تِلَاوَةٌ) الْكِتَابُ: پُرَهْنَا۔</p>
<p>التَّمَامَةُ: بَقِيَّةُ۔ التَّيْمَةُ: جِمْسِ سِي كِي شَيْءُ كُو پُورَا كِيَا جَاے۔ التَّمِيمُ: مَضْبُوطٌ۔ پُورے تَدْوِ قَامَتِ وَالَا۔ التَّمِيمَةُ: تَعْوِيذٌ۔ جَاتِلَامِ وَ تَمِيمَاتِ اور "اِمَاطَةُ الصَّمَامِ" كِنَايَةُ هِي بَرِيءِ بُوْتِي سے۔</p>	<p>التَّلْوُ: وَهِي شَيْءٌ جِمْسِ كِي شَيْءُ كُو پِچھے ہُو۔ اَوْثَنِي كَا بچہ جِس كَا دُوْدُهُ چَمْرَا دِيَا جَاے اور وَا اِيْتِي مَالِ كِي پِچھے چلے۔ جَاتِلَاوُ: مَوْتٌ تَلْوَةٌ۔ التَّلْوُ: هِيْشَ پِچھے چلنے والا۔ التَّلْيُ: بَهْتُ مَالِ وَالَا۔ بَهْتُ قِصْمِيں۔ كِهَانِي وَالَا۔</p>	<p>تَلِي (س) تَلِيهَا: حَيْرَانٌ هُوْنَا..... الشَّيْءُ: تَلْفٌ هُوْنَا۔ تَلِيهَةٌ وَ تَلِيهَةٌ: بَهُولَانَا اور كِهَا جَاتَا ہے "زَجَلٌ تَلَاةُ الْعَقْلِ وَ تَمْلُوهُ الْعَقْلُ" مَرُو عَقْلٌ۔ زَاكِلٌ شَدُهُ۔ آتَلَةُ الشَّيْءِ: بَرِيَادُ كَرْنَا۔ تِهَاهُ كَرْنَا۔ تَلَا (ن) تَلَوْنَا: پِچھے چلنا..... عِنْدَهُ: چُجُوْرُو دِيْنَا۔ كِهَا جَاتَا ہے "تَلَا عِنْدَ قَوْمِيه" اِس نِي اِيْتِي تُو م كَا سَا تَه چُجُوْرُو دِيَا اور پِچھے رَهَا كِيَا۔ (..... تِلَاوَةٌ) الْكِتَابُ: پُرَهْنَا۔</p>
<p>تَمَّتْ تَمْتَمَةٌ: فِي الْكَلَامِ: جَلْدِي جَلْدِي بُولْنَا اور وَا شَخْصِ نِه كَرْنَا۔ صَفْتِ (تَمْتَمِ) مَوْتٌ تَمْتَمَةٌ۔</p>	<p>التَّلَاوَةُ وَ التَّلِيَّةُ: بَقِيَّةُ "تَلَاوَةُ الدِّينِ" لِي مَعْنِي قَرَضُ كَا بَقِيَّةُ۔ كِهَا جَاتَا ہے "ذَهَبَتْ بَلِيَّةُ الشَّبَابِ" جَوَانِي كَا بَقِيَّةُ جَاتَا رِيَا اور كِهَا جَاتَا ہے "فَلَانٌ بَقِيَّةُ الْكِرَامِ وَ تَلِيَّةُ الْاِحْرَارِ" فُلَانٌ بَرِيگُوں كَا اور شَرَفَاءُ كَا بَقِيَّةُ هِي۔</p>	<p>تَلِي (س) تَلِي: مِّنَ الشَّهْرِ يَوْمٌ: اَيْكِي دِنِ يَاتِي رَهْنَا۔ آتَلَاهُ: آگے بَرَحْنَا۔ پِچھے كَرْنَا۔ آتَلَاهُ فُلَانَا: پِچھے چلانا۔ آتَلَاهُ عَلِي فُلَانُ: حِوَالَهُ كَرْنَا۔ تَم كِيْتِي هُو "اَتَلَيْتُ فُلَانًا ذِمَّةً" لِي مَعْنِي مِيں نِي فُلَانِ كِي ذَمُّ كَر دِيَا۔ "اَتَلَيْتُ حَقِي عِنْدَهُ" لِي مَعْنِي مِيں نِي اِس كِي پَاسِ اِيْتِي حَقِ مِيں سِي كِيچھ بَاتِي نِه كِهَا۔</p>
<p>تَمْرَةٌ (ن) تَمَرًا وَ تَمْرَه: كِهْجُوْرُ كِهَلَا تَا۔ السَّلْحَمُ: چِجُوْنِي چِجُوْنِي كُو كَا شَا اور خَشْكُ كَرْنَا۔ اَتَمَّرَ وَ تَمَّرَ: الرُّطْبُ: خَشْكُ كِهْجُوْرُ هُوْنَا۔</p>	<p>التَّم (ض) تَمًا وَ تَمًّا وَ تَمَامًا وَ تَمَامًا: تَمَّ وَ تَمَّ وَ تَمَّ وَ تَمَّ: پُورَا هُوْنَا..... بِالشَّيْءِ وَ عَلَيْهِ: پُورَا كَرْنَا..... عَلِي اَمْرِهِ: جَارِي وَ نَا فِذْ كَرْنَا..... اَلِي مَوْضِعِ كَذَا: پِهَنچَا تَا۔ عِنْدَهُ الْعَيْنُ: تَعْوِيذُ لَكَا كَر نَطْرُ بَدْوَرُ كَرْنَا۔</p>	<p>آتَلَاهُ: آگے بَرَحْنَا۔ پِچھے كَرْنَا۔ آتَلَاهُ فُلَانَا: پِچھے چلانا۔ آتَلَاهُ عَلِي فُلَانُ: حِوَالَهُ كَرْنَا۔ تَم كِيْتِي هُو "اَتَلَيْتُ فُلَانًا ذِمَّةً" لِي مَعْنِي مِيں نِي فُلَانِ كِي ذَمُّ كَر دِيَا۔ "اَتَلَيْتُ حَقِي عِنْدَهُ" لِي مَعْنِي مِيں نِي اِس كِي پَاسِ اِيْتِي حَقِ مِيں سِي كِيچھ بَاتِي نِه كِهَا۔ تَلَاهُ تَلِيَّةً: پِچھے چلنا۔ تَلَيْتُ الرُّجُلُ: نِذْرُ پُورِي كَرْنَا۔ آخِرِي سَأْسِ مِيں هُوْنَا۔</p>
<p>..... النَّخْلَةُ: پِچھلِ دَارِ هُوْنَا۔ اَتَمَّرَ الْقَوْمُ: بَهْتُ كِهْجُوْرُوں وَ الْاِهْوَا۔ تَمَّرَ: اللُّخْمُ: خَشْكُ هُوْنَا۔ التَّمْرُ: خَرْمَا۔ وَ اِحْدِ تَمْرَةٍ: جَاتِلَامَاتِ وَ تَمُورٌ وَ تَمْرَانُ: التَّمْرَةُ: چَا بَكِ كِي سَرِي كِي گِرَه۔</p>	<p>تَمَّتْ وَ اَتَمَّتْ: پُورَا كَرْنَا۔ مَدَّتْ تَكِ پِهَنچَا دِيْنَا۔ كِهَا جَاتَا ہے "تَمَّ عَلِي الْجَرِيحِ" لِي مَعْنِي اِس نِي زَمِي كُو مَارُؤَالَا۔ "تَمَّمْتُ الْمَوْلُودَ" تَعْوِيذُ لِكَا تَا۔ اَتَمَّ عَلِي الْمَحَلِّ: اِرَادَهُ كَرْنَا اور جَانَا۔ اَتَمَّتْ الْخَيْلِي: وِلَادَاتِ كَا زَمَانُ قَرِيْبُ هُوْنَا..... الْقَمْرُ: بَدْرُ كَامِلٌ هُوْنَا۔</p>	<p>تَلِي (س) تَلِي: مِّنَ الشَّهْرِ يَوْمٌ: اَيْكِي دِنِ يَاتِي رَهْنَا۔ آتَلَاهُ: آگے بَرَحْنَا۔ پِچھے كَرْنَا۔ آتَلَاهُ فُلَانَا: پِچھے چلانا۔ آتَلَاهُ عَلِي فُلَانُ: حِوَالَهُ كَرْنَا۔ تَم كِيْتِي هُو "اَتَلَيْتُ فُلَانًا ذِمَّةً" لِي مَعْنِي مِيں نِي فُلَانِ كِي ذَمُّ كَر دِيَا۔ "اَتَلَيْتُ حَقِي عِنْدَهُ" لِي مَعْنِي مِيں نِي اِس كِي پَاسِ اِيْتِي حَقِ مِيں سِي كِيچھ بَاتِي نِه كِهَا۔ تَلَاهُ تَلِيَّةً: پِچھے چلنا۔ تَلَيْتُ الرُّجُلُ: نِذْرُ پُورِي كَرْنَا۔ آخِرِي سَأْسِ مِيں هُوْنَا۔</p>
<p>التَّمْرُ الْهِنْدِي: اَلِي۔ التَّمَارُ: خَرْمَا فَرُوشُ۔ التَّمَارُ: بَهْتُ كِهْجُوْرُوں وَ الْاِهْوَا۔ كِهْجُوْرُوں وَ الْاِهْوَا۔ التَّمْمُورُ: كِهْجُوْرُ كَا تُو شَرِيَا هُوْنَا۔ التَّمْرِيُّ: كِهْجُوْرُوں كَا شَاكِي۔</p>	<p>تَمَّتْ وَ اَتَمَّتْ: پُورَا كَرْنَا۔ مَدَّتْ تَكِ پِهَنچَا دِيْنَا۔ كِهَا جَاتَا ہے "تَمَّ عَلِي الْجَرِيحِ" لِي مَعْنِي اِس نِي زَمِي كُو مَارُؤَالَا۔ "تَمَّمْتُ الْمَوْلُودَ" تَعْوِيذُ لِكَا تَا۔ اَتَمَّ عَلِي الْمَحَلِّ: اِرَادَهُ كَرْنَا اور جَانَا۔ اَتَمَّتْ الْخَيْلِي: وِلَادَاتِ كَا زَمَانُ قَرِيْبُ هُوْنَا..... الْقَمْرُ: بَدْرُ كَامِلٌ هُوْنَا۔</p>	<p>تَلِي (س) تَلِي: مِّنَ الشَّهْرِ يَوْمٌ: اَيْكِي دِنِ يَاتِي رَهْنَا۔ آتَلَاهُ: آگے بَرَحْنَا۔ پِچھے كَرْنَا۔ آتَلَاهُ فُلَانَا: پِچھے چلانا۔ آتَلَاهُ عَلِي فُلَانُ: حِوَالَهُ كَرْنَا۔ تَم كِيْتِي هُو "اَتَلَيْتُ فُلَانًا ذِمَّةً" لِي مَعْنِي مِيں نِي فُلَانِ كِي ذَمُّ كَر دِيَا۔ "اَتَلَيْتُ حَقِي عِنْدَهُ" لِي مَعْنِي مِيں نِي اِس كِي پَاسِ اِيْتِي حَقِ مِيں سِي كِيچھ بَاتِي نِه كِهَا۔ تَلَاهُ تَلِيَّةً: پِچھے چلنا۔ تَلَيْتُ الرُّجُلُ: نِذْرُ پُورِي كَرْنَا۔ آخِرِي سَأْسِ مِيں هُوْنَا۔</p>
<p>..... النَّخْلَةُ: پِچھلِ دَارِ هُوْنَا۔ اَتَمَّرَ الْقَوْمُ: بَهْتُ كِهْجُوْرُوں وَ الْاِهْوَا۔ تَمَّرَ: اللُّخْمُ: خَشْكُ هُوْنَا۔ التَّمْرُ: خَرْمَا۔ وَ اِحْدِ تَمْرَةٍ: جَاتِلَامَاتِ وَ تَمُورٌ وَ تَمْرَانُ: التَّمْرَةُ: چَا بَكِ كِي سَرِي كِي گِرَه۔</p>	<p>تَمَّتْ وَ اَتَمَّتْ: پُورَا كَرْنَا۔ مَدَّتْ تَكِ پِهَنچَا دِيْنَا۔ كِهَا جَاتَا ہے "تَمَّ عَلِي الْجَرِيحِ" لِي مَعْنِي اِس نِي زَمِي كُو مَارُؤَالَا۔ "تَمَّمْتُ الْمَوْلُودَ" تَعْوِيذُ لِكَا تَا۔ اَتَمَّ عَلِي الْمَحَلِّ: اِرَادَهُ كَرْنَا اور جَانَا۔ اَتَمَّتْ الْخَيْلِي: وِلَادَاتِ كَا زَمَانُ قَرِيْبُ هُوْنَا..... الْقَمْرُ: بَدْرُ كَامِلٌ هُوْنَا۔</p>	<p>تَلِي (س) تَلِي: مِّنَ الشَّهْرِ يَوْمٌ: اَيْكِي دِنِ يَاتِي رَهْنَا۔ آتَلَاهُ: آگے بَرَحْنَا۔ پِچھے كَرْنَا۔ آتَلَاهُ فُلَانَا: پِچھے چلانا۔ آتَلَاهُ عَلِي فُلَانُ: حِوَالَهُ كَرْنَا۔ تَم كِيْتِي هُو "اَتَلَيْتُ فُلَانًا ذِمَّةً" لِي مَعْنِي مِيں نِي فُلَانِ كِي ذَمُّ كَر دِيَا۔ "اَتَلَيْتُ حَقِي عِنْدَهُ" لِي مَعْنِي مِيں نِي اِس كِي پَاسِ اِيْتِي حَقِ مِيں سِي كِيچھ بَاتِي نِه كِهَا۔ تَلَاهُ تَلِيَّةً: پِچھے چلنا۔ تَلَيْتُ الرُّجُلُ: نِذْرُ پُورِي كَرْنَا۔ آخِرِي سَأْسِ مِيں هُوْنَا۔</p>

<p>تَاخ (ن) تَوْجًا: تاج پہننا۔ تَوَجَّهَ: تاج پہننا۔ تَتَوَجَّحُ: تاج پہننا۔ التَّائِجُ: تاج والا۔</p>	<p>التَّائِرُ: تورا بنانے والا۔ التَّضُّبُ: (دیکھئے مادہ نصب) السُّوْفَةُ وَالسُّوْفِيَّةُ: بے پانی کا جنگل ج تَنَائِفُ.</p>	<p>التَّامُورِي وَالتَّامُورِي: انسان۔ کہا جاتا ہے "نساب اللدَّارِ تَامُورًا وَتَوْمُورًا" گھر میں کوئی نہیں یا کچھ نہیں۔ تَمُوزُ وَتَمُوزُ: ترکی مہینہ۔ مطابق ماہ جولائی۔</p>
<p>التَّاجُ: شاہی ٹوپی۔ ج تَيْجَانُ۔ تاج السُّجَّارُ: ستارے۔ تَسَاجُ العُغُودِ: ستون کے بالائی حصہ کے نقش و نگار۔ التَّوَجِّيحِيَّةُ: پانچ قسم کے پھولوں کا گلدستہ۔</p>	<p>التَّنَكُّ: ٹپن (جدید) التَّنَكُّجِي: ٹپن بنانے والا۔ (جدید) تَهْتَهْتَه: لغویات میں مشغول ہونا۔ التَّهَاتِيه: لغویات باطل باتیں۔ تَهَيَّم (س) التَّهَيَّمَا: اللُّحْمُ: خراب ہونا۔ صفت (تہم)</p>	<p>التَّصْمَاحُ: گھڑیاں۔ ج تَمَّاسِيحُ. تَمَّاسِيحُ: تَمَّاسِيحُ: مگر چھ تَمِه (س) تَمَّهَا وَتَمَّاهَةُ: الطَّعَامُ: بویا مڑا خراب ہونا۔ صفت (تمہ) تَمَّانٌ: بَيْنَهُمَا: مقابلہ کرنا۔ اندازہ کرنا۔ آتَمُّ: المَرَضُ الصَّيْبِيُّ: بڑھنے سے روکنا۔ صفت مفعولی (تَمَّ). الرُّجُلُ: دور ہونا۔ التَّيْنُ: خُصٌّ: مثل۔ ہمسر۔ ج اتَّانُ. التَّيْنِيُّ: جھلی۔ اڑدھا۔ آسان میں ایک جگہ کا نام۔ ج تَتَّانِيْنُ.</p>
<p>تَاخ يَتَوَخَّحُ تَوْخًا: لَهُ الشَّيْءُ: تیار ہونا۔ تَوَخَّثُ (ن) تَوَخَّحًا وَتَوَخَّحًا: الإِضْبَاعُ: بھي الجُذْمُ: المَوَادِمُ أَوْ الرِّخْوُ: انگلی کا سوجے ہونے یا نرم حصہ بدن میں دھنس جانا۔ التَّوَذَّرِي وَالتَّوَذَّرِي: ایک دو کا نام۔ تَوَّزَّ (ن) تَوَّزَّ: الماءُ: جاری ہونا۔ اتَّازَه اِتَّازَةً: بار بار لوانا۔ التَّوَزَّرُ: جھومنا برتن۔ قاصد۔ التَّازَرَةُ: (دیکھئے تار)</p>	<p>تَهَامَةُ: ملکہ معظمہ۔ ملک حجاز کے جنوبی علاقے۔ نسبت کے لئے تہامی و تہام ج تَهَامِيُونُ وَتَهَامِيُونُ: سرزمین۔ تہامہ میں آنا یا نازل ہونا۔ التَّهْمَةُ: بدبو۔ تَهَامَةُ: ملکہ معظمہ۔ ملک حجاز کے جنوبی علاقے۔ نسبت کے لئے تہامی و تہام ج تَهَامِيُونُ وَتَهَامِيُونُ: سرزمین۔ تہامہ میں آنا یا نازل ہونا۔ التَّهْمَةُ: بدبو۔</p>	<p>تَمَّانٌ: بَيْنَهُمَا: مقابلہ کرنا۔ اندازہ کرنا۔ آتَمُّ: المَرَضُ الصَّيْبِيُّ: بڑھنے سے روکنا۔ صفت مفعولی (تَمَّ). الرُّجُلُ: دور ہونا۔ التَّيْنُ: خُصٌّ: مثل۔ ہمسر۔ ج اتَّانُ. التَّيْنِيُّ: جھلی۔ اڑدھا۔ آسان میں ایک جگہ کا نام۔ ج تَتَّانِيْنُ. تَمَّانٌ (ف) تَمَّانًا: بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ صفت (تالی) تَمَّانًا. التَّسْوُبُ: واحد التَّسْوُبَةِ: صنوبر کی قسم کے مشہور درخت جس کا تنا سیدھا لہا ہوتا ہے عام باغوں میں زینت کے لئے بویا جاتا ہے۔</p>
<p>اتَّازَه اِتَّازَةً: بار بار لوانا۔ التَّوَزَّرُ: جھومنا برتن۔ قاصد۔ التَّازَرَةُ: (دیکھئے تار) التَّسْوَرَةُ وَالتَّسْوَرَةُ: آسانی کتاب جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ ج تَوَّزَّاتٌ وَتَوَّزَّاتٌ تَوَّزَّ (ن) تَوَّزَّ: الشَّيْءُ: سخت ہونا۔ تَوَّزَّ (ن) تَوَّزَّ: البَصْرُ: نگاہ کا چندھیا جانا۔</p>	<p>تَهَامَةُ: ملکہ معظمہ۔ ملک حجاز کے جنوبی علاقے۔ نسبت کے لئے تہامی و تہام ج تَهَامِيُونُ وَتَهَامِيُونُ: سرزمین۔ تہامہ میں آنا یا نازل ہونا۔ التَّهْمَةُ: بدبو۔ تَهَامَةُ: ملکہ معظمہ۔ ملک حجاز کے جنوبی علاقے۔ نسبت کے لئے تہامی و تہام ج تَهَامِيُونُ وَتَهَامِيُونُ: سرزمین۔ تہامہ میں آنا یا نازل ہونا۔ التَّهْمَةُ: بدبو۔</p>	<p>التَّسْوُبُ: واحد التَّسْوُبَةِ: صنوبر کی قسم کے مشہور درخت جس کا تنا سیدھا لہا ہوتا ہے عام باغوں میں زینت کے لئے بویا جاتا ہے۔ التَّنَبُّكُ وَالتَّنَبَّاكُ: تہماکو۔ التَّنَبُّلُ وَالتَّنَبُّالُ وَالتَّنَبُّولُ وَالتَّنَبُّالَةُ: پست قد۔ کندہ پن۔ ست ج تَنَابِيلُ وَ تَنَابِلَةُ. التَّنَبُّلُ وَالتَّنَبُّولُ: پان۔ التَّنَجْرَةُ: ہائٹری۔ دیگ (جدید) التَّنَجِّيْنُ: تَنَجُّسٌ: اک دھات جو بجلی کی تاروں میں استعمال ہوتی ہے۔ اور فولاد جوڑا جاتا ہے۔ علامت "W" تَنَخَّ (ن) تَنَخَّحًا وَتَنَخَّحًا وَتَنَخَّحًا: بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ تَنَخَّ (س) تَنَخَّحًا: بدبھمی ہونا۔ التَّنَخُّعُ: جتلا۔ بدبھمی کرنا۔ التَّنَوُّبُ: صنوبر کی مانند ایک درخت کا نام۔ واحد تَنَوُّبَةٌ. التَّنَوُّرُ: تَوْرُ: ج تَنَابِيْرُ.</p>
<p>تَوَّزَّ (ن) تَوَّزَّ: الشَّيْءُ: سخت ہونا۔ تَوَّزَّ (ن) تَوَّزَّ: البَصْرُ: نگاہ کا چندھیا جانا۔ التَّنَافَةُ وَالتَّنَوُّفَةُ وَالتَّنَوُّفَةُ: عیب۔ کہا جاتا ہے "تَنَافِيهِ تَوُّفَةٌ" اس میں کوئی عیب نہیں۔ گناہ۔ تَاق (ن) تَوُّفًا وَتَوُّوْفًا وَتَوُّوْفًا وَتَوُّوْفًا: وَتَيَّافِقُهُ. وَالتَّنَوُّفَةُ: شائق ہونا۔ إلى الغَايَةِ: جلدی کرنا۔ صفت (تَسَائِقُ وَتَوَّاقُ). عَيْنُهُ بِالدُّمُوعِ: بہنا۔ تَاقٌ مِنْهُ: ڈرنا۔ بنفسه: جان دینا۔</p>	<p>التَّنَبُّكُ وَالتَّنَبَّاكُ: تہماکو۔ التَّنَبُّلُ وَالتَّنَبُّالُ وَالتَّنَبُّولُ وَالتَّنَبُّالَةُ: پست قد۔ کندہ پن۔ ست ج تَنَابِيلُ وَ تَنَابِلَةُ. التَّنَبُّلُ وَالتَّنَبُّولُ: پان۔ التَّنَجْرَةُ: ہائٹری۔ دیگ (جدید) التَّنَجِّيْنُ: تَنَجُّسٌ: اک دھات جو بجلی کی تاروں میں استعمال ہوتی ہے۔ اور فولاد جوڑا جاتا ہے۔ علامت "W" تَنَخَّ (ن) تَنَخَّحًا وَتَنَخَّحًا وَتَنَخَّحًا: بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ تَنَخَّ (س) تَنَخَّحًا: بدبھمی ہونا۔ التَّنَخُّعُ: جتلا۔ بدبھمی کرنا۔ التَّنَوُّبُ: صنوبر کی مانند ایک درخت کا نام۔ واحد تَنَوُّبَةٌ. التَّنَوُّرُ: تَوْرُ: ج تَنَابِيْرُ.</p>	<p>التَّنَبُّكُ وَالتَّنَبَّاكُ: تہماکو۔ التَّنَبُّلُ وَالتَّنَبُّالُ وَالتَّنَبُّولُ وَالتَّنَبُّالَةُ: پست قد۔ کندہ پن۔ ست ج تَنَابِيلُ وَ تَنَابِلَةُ. التَّنَبُّلُ وَالتَّنَبُّولُ: پان۔ التَّنَجْرَةُ: ہائٹری۔ دیگ (جدید) التَّنَجِّيْنُ: تَنَجُّسٌ: اک دھات جو بجلی کی تاروں میں استعمال ہوتی ہے۔ اور فولاد جوڑا جاتا ہے۔ علامت "W" تَنَخَّ (ن) تَنَخَّحًا وَتَنَخَّحًا وَتَنَخَّحًا: بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ تَنَخَّ (س) تَنَخَّحًا: بدبھمی ہونا۔ التَّنَخُّعُ: جتلا۔ بدبھمی کرنا۔ التَّنَوُّبُ: صنوبر کی مانند ایک درخت کا نام۔ واحد تَنَوُّبَةٌ. التَّنَوُّرُ: تَوْرُ: ج تَنَابِيْرُ.</p>
<p>تَوَّزَّ (ن) تَوَّزَّ: الشَّيْءُ: سخت ہونا۔ تَوَّزَّ (ن) تَوَّزَّ: البَصْرُ: نگاہ کا چندھیا جانا۔ التَّنَافَةُ وَالتَّنَوُّفَةُ وَالتَّنَوُّفَةُ: عیب۔ کہا جاتا ہے "تَنَافِيهِ تَوُّفَةٌ" اس میں کوئی عیب نہیں۔ گناہ۔ تَاق (ن) تَوُّفًا وَتَوُّوْفًا وَتَوُّوْفًا وَتَوُّوْفًا: وَتَيَّافِقُهُ. وَالتَّنَوُّفَةُ: شائق ہونا۔ إلى الغَايَةِ: جلدی کرنا۔ صفت (تَسَائِقُ وَتَوَّاقُ). عَيْنُهُ بِالدُّمُوعِ: بہنا۔ تَاقٌ مِنْهُ: ڈرنا۔ بنفسه: جان دینا۔</p>	<p>التَّنَبُّكُ وَالتَّنَبَّاكُ: تہماکو۔ التَّنَبُّلُ وَالتَّنَبُّالُ وَالتَّنَبُّولُ وَالتَّنَبُّالَةُ: پست قد۔ کندہ پن۔ ست ج تَنَابِيلُ وَ تَنَابِلَةُ. التَّنَبُّلُ وَالتَّنَبُّولُ: پان۔ التَّنَجْرَةُ: ہائٹری۔ دیگ (جدید) التَّنَجِّيْنُ: تَنَجُّسٌ: اک دھات جو بجلی کی تاروں میں استعمال ہوتی ہے۔ اور فولاد جوڑا جاتا ہے۔ علامت "W" تَنَخَّ (ن) تَنَخَّحًا وَتَنَخَّحًا وَتَنَخَّحًا: بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ تَنَخَّ (س) تَنَخَّحًا: بدبھمی ہونا۔ التَّنَخُّعُ: جتلا۔ بدبھمی کرنا۔ التَّنَوُّبُ: صنوبر کی مانند ایک درخت کا نام۔ واحد تَنَوُّبَةٌ. التَّنَوُّرُ: تَوْرُ: ج تَنَابِيْرُ.</p>	<p>التَّنَبُّكُ وَالتَّنَبَّاكُ: تہماکو۔ التَّنَبُّلُ وَالتَّنَبُّالُ وَالتَّنَبُّولُ وَالتَّنَبُّالَةُ: پست قد۔ کندہ پن۔ ست ج تَنَابِيلُ وَ تَنَابِلَةُ. التَّنَبُّلُ وَالتَّنَبُّولُ: پان۔ التَّنَجْرَةُ: ہائٹری۔ دیگ (جدید) التَّنَجِّيْنُ: تَنَجُّسٌ: اک دھات جو بجلی کی تاروں میں استعمال ہوتی ہے۔ اور فولاد جوڑا جاتا ہے۔ علامت "W" تَنَخَّ (ن) تَنَخَّحًا وَتَنَخَّحًا وَتَنَخَّحًا: بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ تَنَخَّ (س) تَنَخَّحًا: بدبھمی ہونا۔ التَّنَخُّعُ: جتلا۔ بدبھمی کرنا۔ التَّنَوُّبُ: صنوبر کی مانند ایک درخت کا نام۔ واحد تَنَوُّبَةٌ. التَّنَوُّرُ: تَوْرُ: ج تَنَابِيْرُ.</p>
<p>تَوَّزَّ (ن) تَوَّزَّ: الشَّيْءُ: سخت ہونا۔ تَوَّزَّ (ن) تَوَّزَّ: البَصْرُ: نگاہ کا چندھیا جانا۔ التَّنَافَةُ وَالتَّنَوُّفَةُ وَالتَّنَوُّفَةُ: عیب۔ کہا جاتا ہے "تَنَافِيهِ تَوُّفَةٌ" اس میں کوئی عیب نہیں۔ گناہ۔ تَاق (ن) تَوُّفًا وَتَوُّوْفًا وَتَوُّوْفًا وَتَوُّوْفًا: وَتَيَّافِقُهُ. وَالتَّنَوُّفَةُ: شائق ہونا۔ إلى الغَايَةِ: جلدی کرنا۔ صفت (تَسَائِقُ وَتَوَّاقُ). عَيْنُهُ بِالدُّمُوعِ: بہنا۔ تَاقٌ مِنْهُ: ڈرنا۔ بنفسه: جان دینا۔</p>	<p>التَّنَبُّكُ وَالتَّنَبَّاكُ: تہماکو۔ التَّنَبُّلُ وَالتَّنَبُّالُ وَالتَّنَبُّولُ وَالتَّنَبُّالَةُ: پست قد۔ کندہ پن۔ ست ج تَنَابِيلُ وَ تَنَابِلَةُ. التَّنَبُّلُ وَالتَّنَبُّولُ: پان۔ التَّنَجْرَةُ: ہائٹری۔ دیگ (جدید) التَّنَجِّيْنُ: تَنَجُّسٌ: اک دھات جو بجلی کی تاروں میں استعمال ہوتی ہے۔ اور فولاد جوڑا جاتا ہے۔ علامت "W" تَنَخَّ (ن) تَنَخَّحًا وَتَنَخَّحًا وَتَنَخَّحًا: بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ تَنَخَّ (س) تَنَخَّحًا: بدبھمی ہونا۔ التَّنَخُّعُ: جتلا۔ بدبھمی کرنا۔ التَّنَوُّبُ: صنوبر کی مانند ایک درخت کا نام۔ واحد تَنَوُّبَةٌ. التَّنَوُّرُ: تَوْرُ: ج تَنَابِيْرُ.</p>	<p>التَّنَبُّكُ وَالتَّنَبَّاكُ: تہماکو۔ التَّنَبُّلُ وَالتَّنَبُّالُ وَالتَّنَبُّولُ وَالتَّنَبُّالَةُ: پست قد۔ کندہ پن۔ ست ج تَنَابِيلُ وَ تَنَابِلَةُ. التَّنَبُّلُ وَالتَّنَبُّولُ: پان۔ التَّنَجْرَةُ: ہائٹری۔ دیگ (جدید) التَّنَجِّيْنُ: تَنَجُّسٌ: اک دھات جو بجلی کی تاروں میں استعمال ہوتی ہے۔ اور فولاد جوڑا جاتا ہے۔ علامت "W" تَنَخَّ (ن) تَنَخَّحًا وَتَنَخَّحًا وَتَنَخَّحًا: بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ تَنَخَّ (س) تَنَخَّحًا: بدبھمی ہونا۔ التَّنَخُّعُ: جتلا۔ بدبھمی کرنا۔ التَّنَوُّبُ: صنوبر کی مانند ایک درخت کا نام۔ واحد تَنَوُّبَةٌ. التَّنَوُّرُ: تَوْرُ: ج تَنَابِيْرُ.</p>
<p>التَّنَوُّبُ: صنوبر کی مانند ایک درخت کا نام۔ واحد تَنَوُّبَةٌ. التَّنَوُّرُ: تَوْرُ: ج تَنَابِيْرُ.</p>	<p>التَّنَبُّكُ وَالتَّنَبَّاكُ: تہماکو۔ التَّنَبُّلُ وَالتَّنَبُّالُ وَالتَّنَبُّولُ وَالتَّنَبُّالَةُ: پست قد۔ کندہ پن۔ ست ج تَنَابِيلُ وَ تَنَابِلَةُ. التَّنَبُّلُ وَالتَّنَبُّولُ: پان۔ التَّنَجْرَةُ: ہائٹری۔ دیگ (جدید) التَّنَجِّيْنُ: تَنَجُّسٌ: اک دھات جو بجلی کی تاروں میں استعمال ہوتی ہے۔ اور فولاد جوڑا جاتا ہے۔ علامت "W" تَنَخَّ (ن) تَنَخَّحًا وَتَنَخَّحًا وَتَنَخَّحًا: بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ تَنَخَّ (س) تَنَخَّحًا: بدبھمی ہونا۔ التَّنَخُّعُ: جتلا۔ بدبھمی کرنا۔ التَّنَوُّبُ: صنوبر کی مانند ایک درخت کا نام۔ واحد تَنَوُّبَةٌ. التَّنَوُّرُ: تَوْرُ: ج تَنَابِيْرُ.</p>	<p>التَّنَبُّكُ وَالتَّنَبَّاكُ: تہماکو۔ التَّنَبُّلُ وَالتَّنَبُّالُ وَالتَّنَبُّولُ وَالتَّنَبُّالَةُ: پست قد۔ کندہ پن۔ ست ج تَنَابِيلُ وَ تَنَابِلَةُ. التَّنَبُّلُ وَالتَّنَبُّولُ: پان۔ التَّنَجْرَةُ: ہائٹری۔ دیگ (جدید) التَّنَجِّيْنُ: تَنَجُّسٌ: اک دھات جو بجلی کی تاروں میں استعمال ہوتی ہے۔ اور فولاد جوڑا جاتا ہے۔ علامت "W" تَنَخَّ (ن) تَنَخَّحًا وَتَنَخَّحًا وَتَنَخَّحًا: بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ تَنَخَّ (س) تَنَخَّحًا: بدبھمی ہونا۔ التَّنَخُّعُ: جتلا۔ بدبھمی کرنا۔ التَّنَوُّبُ: صنوبر کی مانند ایک درخت کا نام۔ واحد تَنَوُّبَةٌ. التَّنَوُّرُ: تَوْرُ: ج تَنَابِيْرُ.</p>

<p>الامر: اصرار کرنا۔ کہا جاتا ہے "إِنَّهُ يَنْتَابِعُ فِي الْأُسُودِ" وہ اپنے آپ کو معاملات میں بغیر سوچے سمجھے ڈال دیتا ہے۔</p>	<p>الْبَيْتِيخَةُ: بھجور کی چھڑی۔ الْبَيْتِيخَةُ: بھجور کی چھڑی۔ الْبَيْتِيخَةُ: بھجور کی چھڑی۔</p>	<p>التَّوَلَّى وَ التَّوَلَّى: جادو وغیرہ۔ التَّوَلَّى: موتی کے مشابہ چاندی کا دانہ۔ التَّوَلَّى: شتر مرغ کا انڈا۔ ج تَوَمَّ وَ تَوَمَّ: توم کو عوام توم (لبسن) کے بجائے استعمال کرتے ہیں۔</p>
<p>تَاك (ض) تَبُوْنَا: بے وقوف ہونا۔ صفت (تالک) أَحْمَقُ تَالِكٌ: بہت بیوقوف۔ اتاكف: الشَّعْرُ: اُكْحِيْرْنَا۔</p>	<p>التَّيْسَارُ: جوش مارنے والے سمندر کی لہر۔ مغرور۔ کہا جاتا ہے "قَطَعَ عِرْفًا تَبَاْرًا" اس نے تیز بینے والی رگ کو کاٹا۔ و "فَرَسٌ تَبَاْرٌ" دوڑنے میں موج کی طرح چلنے والا گھوڑا۔ التَّبِيْرُ: بگم وغرور۔ تَابَرَةٌ: (دیکھئے تَابَرٌ)</p>	<p>التَّسْوَمُ: مالا پہنا ہوا۔ کان میں بالی پہننے والا۔ تَسَاوَنَ وَ تَسَاوَنَ الصَّيْدُ: بھیگی دائیں بھیگی بائیں سے حملہ کرنا۔ أَتَوَّنَ: الحَمَامُ: حمام کی بھیگی۔</p>
<p>تَبِيْك: مونت کے لئے اسم اشارہ۔ اس کی تغصیر (تَبِيَاك) ہے اور اس پر ہاء: تشبیہ میں داخل ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے (ہاتیک) قَاعَهُ (ض) تَبِيْمًا وَ تَبِيْمَةً: الحَبُّ: غلام بنا دینا۔ ذیل کر دینا۔</p>	<p>تَابَرَةٌ (ض) تَبِيْرًا وَ تَبَاْرَةً: غلبہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "تَبَاْرَ السَّهْمُ فِي الرُّمِيَّةِ" شکار میں تیرنے حرکت کی۔ التَّبَاْرُ: پست قد سخت جوڑوں والا۔ تَابَسَ: بِيْنَسُ: الجَدِيُّ: بکرا بن جانا۔</p>	<p>تَبَا (ن) تَوُهًا: ہلاک ہونا۔ ضائع ہونا۔ راستہ گم کرنا۔ فاسد العقل ہونا۔ التَّوَهُ وَ التَّوَهُ: ہلاکت۔ فَلَاقَةُ تَوُهُ: گمراہ کر دینے والا بیابان۔ ج اتَوَاهُ وَ جَجَّ اتَوَاهُ: تَوُهَهُ وَ اتَاهَهُ: ہلاک کرنا۔</p>
<p>التَّبِيْمُ: مص۔ عشق کی وجہ سے عقل کی خرابی۔ غلام کہا جاتا ہے "هُوَ تَبِيْمٌ اللّٰهُ" وہ اللہ کا بندہ ہے۔ التَّبِيْمَةُ وَ التَّبِيْمَةُ: بکری جو گھر میں چارہ دے کر دوہی جائے۔ بکری جو بھوک کے وقت ذبح کی جائے۔</p>	<p>تَبَسَّ: فَرَسُهُ: سدھانا..... هُ عَن كَذَا: باز رکھنا۔ تَابَسَ: مدافعت کرنا۔</p>	<p>تَبَوَى (س) تَوَى: الصَّمَالُ: برباد ہونا۔ ہلاک ہونا۔ صفت (تسو و تباو) کہا جاتا ہے "لاتوبى عليه" اسے کوئی نقصان نہیں۔ اتَوَاهُ اتَوَاهُ: اللّٰهُ: ہلاک کرنا۔</p>
<p>التَّبِيْمَاءُ: بیابان۔ نام ایک مقام کا۔ التَّبِيْنُ: النَجْمُ: النجیر کا درخت۔ واحد (تبیئہ) التَّبِيْمَانَةُ: وہ زمین جہاں النجیر کے درخت بہت بوئے ہوں۔ کہا جاتا ہے "أَرْضُ مَتَانَةَ" بہت النجیر والی سرزمین۔</p>	<p>تَبَا (ض) تَبِيْمًا: بگم کرنا..... (تَبِيْمًا وَ تَبِيْمَانًا): سرگشتہ پھیرنا۔ گمراہ ہونا۔ صفت (تَبَاہ وَ تَبِيْمَان) التَّبَاوُغُ: بہتر کاری جس کا دودھ نکلے جب اس کو کاٹا جائے۔</p>	<p>التَّبَوَى (س) تَوَى: الصَّمَالُ: برباد ہونا۔ ہلاک ہونا۔ صفت (تسو و تباو) کہا جاتا ہے "لاتوبى عليه" اسے کوئی نقصان نہیں۔ اتَوَاهُ اتَوَاهُ: اللّٰهُ: ہلاک کرنا۔ التَّبَوَاتُ: باعث ہلاکت۔ باعث نقصان کہتے ہیں "الشَّحُّ مَتَوَاتٌ" بخل باعث نقصان ہے۔ ج متناو و متوینات۔ التَّبَاوُغُ: تجبیر۔ اس کی عربی مُمْتَلٌ ہے اور مولدین کے نزدیک مُسْرَحُ التَّبَاوُغُ: بگم کرنا۔</p>
<p>التَّبِيْمَانَةُ: بہت النجیر والی سرزمین۔ التَّبِيْمَانُ: النجیر بچنے والا۔ النجیر خشک کرنے والا۔ تَبَا (ض) تَبِيْمًا: بگم کرنا..... (تَبِيْمًا وَ تَبِيْمَانًا): سرگشتہ پھیرنا۔ گمراہ ہونا۔ صفت (تَبَاہ وَ تَبِيْمَان) التَّبَاوُغُ: بہتر کاری جس کا دودھ نکلے جب اس کو کاٹا جائے۔</p>	<p>تَبَا (ض) تَبِيْمًا: بگم کرنا..... (تَبِيْمًا وَ تَبِيْمَانًا): سرگشتہ پھیرنا۔ گمراہ ہونا۔ صفت (تَبَاہ وَ تَبِيْمَان) التَّبَاوُغُ: بہتر کاری جس کا دودھ نکلے جب اس کو کاٹا جائے۔</p>	<p>التَّبَوَاتُ: تجبیر۔ اس کی عربی مُمْتَلٌ ہے اور مولدین کے نزدیک مُسْرَحُ التَّبَاوُغُ: بگم کرنا۔ التَّبَاوُغُ: بگم کرنا۔ التَّبَاوُغُ: بگم کرنا۔</p>
<p>التَّبِيْمَانَةُ: بہت النجیر والی سرزمین۔ التَّبِيْمَانُ: النجیر بچنے والا۔ النجیر خشک کرنے والا۔ تَبَا (ض) تَبِيْمًا: بگم کرنا..... (تَبِيْمًا وَ تَبِيْمَانًا): سرگشتہ پھیرنا۔ گمراہ ہونا۔ صفت (تَبَاہ وَ تَبِيْمَان) التَّبَاوُغُ: بہتر کاری جس کا دودھ نکلے جب اس کو کاٹا جائے۔</p>	<p>تَبَا (ض) تَبِيْمًا: بگم کرنا..... (تَبِيْمًا وَ تَبِيْمَانًا): سرگشتہ پھیرنا۔ گمراہ ہونا۔ صفت (تَبَاہ وَ تَبِيْمَان) التَّبَاوُغُ: بہتر کاری جس کا دودھ نکلے جب اس کو کاٹا جائے۔</p>	<p>التَّبَوَاتُ: تجبیر۔ اس کی عربی مُمْتَلٌ ہے اور مولدین کے نزدیک مُسْرَحُ التَّبَاوُغُ: بگم کرنا۔ التَّبَاوُغُ: بگم کرنا۔ التَّبَاوُغُ: بگم کرنا۔</p>
<p>التَّبِيْمَانَةُ: بہت النجیر والی سرزمین۔ التَّبِيْمَانُ: النجیر بچنے والا۔ النجیر خشک کرنے والا۔ تَبَا (ض) تَبِيْمًا: بگم کرنا..... (تَبِيْمًا وَ تَبِيْمَانًا): سرگشتہ پھیرنا۔ گمراہ ہونا۔ صفت (تَبَاہ وَ تَبِيْمَان) التَّبَاوُغُ: بہتر کاری جس کا دودھ نکلے جب اس کو کاٹا جائے۔</p>	<p>تَبَا (ض) تَبِيْمًا: بگم کرنا..... (تَبِيْمًا وَ تَبِيْمَانًا): سرگشتہ پھیرنا۔ گمراہ ہونا۔ صفت (تَبَاہ وَ تَبِيْمَان) التَّبَاوُغُ: بہتر کاری جس کا دودھ نکلے جب اس کو کاٹا جائے۔</p>	<p>التَّبَوَاتُ: تجبیر۔ اس کی عربی مُمْتَلٌ ہے اور مولدین کے نزدیک مُسْرَحُ التَّبَاوُغُ: بگم کرنا۔ التَّبَاوُغُ: بگم کرنا۔ التَّبَاوُغُ: بگم کرنا۔</p>
<p>التَّبِيْمَانَةُ: بہت النجیر والی سرزمین۔ التَّبِيْمَانُ: النجیر بچنے والا۔ النجیر خشک کرنے والا۔ تَبَا (ض) تَبِيْمًا: بگم کرنا..... (تَبِيْمًا وَ تَبِيْمَانًا): سرگشتہ پھیرنا۔ گمراہ ہونا۔ صفت (تَبَاہ وَ تَبِيْمَان) التَّبَاوُغُ: بہتر کاری جس کا دودھ نکلے جب اس کو کاٹا جائے۔</p>	<p>تَبَا (ض) تَبِيْمًا: بگم کرنا..... (تَبِيْمًا وَ تَبِيْمَانًا): سرگشتہ پھیرنا۔ گمراہ ہونا۔ صفت (تَبَاہ وَ تَبِيْمَان) التَّبَاوُغُ: بہتر کاری جس کا دودھ نکلے جب اس کو کاٹا جائے۔</p>	<p>التَّبَوَاتُ: تجبیر۔ اس کی عربی مُمْتَلٌ ہے اور مولدین کے نزدیک مُسْرَحُ التَّبَاوُغُ: بگم کرنا۔ التَّبَاوُغُ: بگم کرنا۔ التَّبَاوُغُ: بگم کرنا۔</p>
<p>التَّبِيْمَانَةُ: بہت النجیر والی سرزمین۔ التَّبِيْمَانُ: النجیر بچنے والا۔ النجیر خشک کرنے والا۔ تَبَا (ض) تَبِيْمًا: بگم کرنا..... (تَبِيْمًا وَ تَبِيْمَانًا): سرگشتہ پھیرنا۔ گمراہ ہونا۔ صفت (تَبَاہ وَ تَبِيْمَان) التَّبَاوُغُ: بہتر کاری جس کا دودھ نکلے جب اس کو کاٹا جائے۔</p>	<p>تَبَا (ض) تَبِيْمًا: بگم کرنا..... (تَبِيْمًا وَ تَبِيْمَانًا): سرگشتہ پھیرنا۔ گمراہ ہونا۔ صفت (تَبَاہ وَ تَبِيْمَان) التَّبَاوُغُ: بہتر کاری جس کا دودھ نکلے جب اس کو کاٹا جائے۔</p>	<p>التَّبَوَاتُ: تجبیر۔ اس کی عربی مُمْتَلٌ ہے اور مولدین کے نزدیک مُسْرَحُ التَّبَاوُغُ: بگم کرنا۔ التَّبَاوُغُ: بگم کرنا۔ التَّبَاوُغُ: بگم کرنا۔</p>
<p>التَّبِيْمَانَةُ: بہت النجیر والی سرزمین۔ التَّبِيْمَانُ: النجیر بچنے والا۔ النجیر خشک کرنے والا۔ تَبَا (ض) تَبِيْمًا: بگم کرنا..... (تَبِيْمًا وَ تَبِيْمَانًا): سرگشتہ پھیرنا۔ گمراہ ہونا۔ صفت (تَبَاہ وَ تَبِيْمَان) التَّبَاوُغُ: بہتر کاری جس کا دودھ نکلے جب اس کو کاٹا جائے۔</p>	<p>تَبَا (ض) تَبِيْمًا: بگم کرنا..... (تَبِيْمًا وَ تَبِيْمَانًا): سرگشتہ پھیرنا۔ گمراہ ہونا۔ صفت (تَبَاہ وَ تَبِيْمَان) التَّبَاوُغُ: بہتر کاری جس کا دودھ نکلے جب اس کو کاٹا جائے۔</p>	<p>التَّبَوَاتُ: تجبیر۔ اس کی عربی مُمْتَلٌ ہے اور مولدین کے نزدیک مُسْرَحُ التَّبَاوُغُ: بگم کرنا۔ التَّبَاوُغُ: بگم کرنا۔ التَّبَاوُغُ: بگم کرنا۔</p>
<p>التَّبِيْمَانَةُ: بہت النجیر والی سرزمین۔ التَّبِيْمَانُ: النجیر بچنے والا۔ النجیر خشک کرنے والا۔ تَبَا (ض) تَبِيْمًا: بگم کرنا..... (تَبِيْمًا وَ تَبِيْمَانًا): سرگشتہ پھیرنا۔ گمراہ ہونا۔ صفت (تَبَاہ وَ تَبِيْمَان) التَّبَاوُغُ: بہتر کاری جس کا دودھ نکلے جب اس کو کاٹا جائے۔</p>	<p>تَبَا (ض) تَبِيْمًا: بگم کرنا..... (تَبِيْمًا وَ تَبِيْمَانًا): سرگشتہ پھیرنا۔ گمراہ ہونا۔ صفت (تَبَاہ وَ تَبِيْمَان) التَّبَاوُغُ: بہتر کاری جس کا دودھ نکلے جب اس کو کاٹا جائے۔</p>	<p>التَّبَوَاتُ: تجبیر۔ اس کی عربی مُمْتَلٌ ہے اور مولدین کے نزدیک مُسْرَحُ التَّبَاوُغُ: بگم کرنا۔ التَّبَاوُغُ: بگم کرنا۔ التَّبَاوُغُ: بگم کرنا۔</p>



ث : الثاء بیادی حروف میں سے چوتھا حرف ہے۔

ثَبَّ (س) ثَابًا وَثَبَّ وَتَثَابَ : جمائی لینا۔ صفت (مثنوب) وَتَثَابَ الْأَخْبَارُ : جستجو کرنا۔ الثَّابُّ وَالثُّوبَاءُ وَالتَّثَابُ : جمائی۔

ثَابًا : بیجا سا رکھنا۔ میراب کرنا..... الثَّابُّ : آگ بجھانا..... العَصْبُ : بغض ٹھنڈا کرنا..... ؤُ عَنِ الْأَمْرِ : کسی کام سے روکنا۔

تَأَجَّتْ : (ف) تَأَجَّ الْعَنْمُ : ممیانا۔ الثَّوَجُ : بھیڑ بکری کی آواز۔

ثَبَّدَ (س) ثَادًا. الثَّبْتُ : شاداب ہونا۔..... الرَّجُلُ أَوْ الْمَكَانُ : ٹھنڈا ہونا۔ صفت (ثبذ و ثبید)

الثَّادُ وَالْفَادُ : نمناک مٹی۔ تری۔ سردی۔ بُرَاكَامُ : نرم و سرسبز نباتات۔

الثَّادَةُ : موٹی عورت۔

الثَّادَاءُ : لونڈی۔ "مَا أَنَا ابْنُ ثَادَاءٍ" : میں عاجز اور کمزور رائے والا نہیں ہوں۔

الثَّادَةُ : موٹاپا۔

ثَارَ (ف) ثَارًا. الثَّيْلُ وَالثَّقِيلُ : خون کا مطالبہ کرنا۔ قَاتِلُ كَوَيْلٍ كَرْنَا : صفت (قائیں) کہا جاتا ہے "ثَارَهُ بِكَذَا"

یعنی اس نے فلاں کے ذریعہ خون کا بدلہ لیا "وَتُثْوِرُ لَيْلَةً" زید سے خون کا بدلہ لیا گیا۔

أَثَارٌ وَآثَارٌ. مَنَّهُ : خون کا بدلہ لینا۔

إِسْتَأْزَرَ : خون کا بدلہ لینے کے لئے فریاد کرنا۔

الْأَثَارُ وَالثُّورَةُ : خون کا بدلہ۔ جرم کا بدلہ۔ ج

أَثَارٌ وَآثَارٌ وَثَائِرٌ : کہا جاتا ہے "هُوَ فَازَكٌ" وہ تمہارے رشتہ دار کا قاتل ہے۔

"وَيَا ثَارَاتِ فُلَانٍ" : اے فلاں کے قاتلو! "وَالشَّارُ لَمُنِيمٌ" : خون کا کامل بدلہ جس کے بعد طالب آرام سے سو رہے۔

ثَنَطَ (ف) فَطَاطًا. الْمَلْحَمُ : خراب ہونا۔ بگڑنا۔

ثَنَطَ. الرَّجُلُ : زکام ہونا صفت (مثنوط) الثَّوَاتُ : زکام۔

الثَّاطَةُ : بدبودار کچڑ اور اسی سے مثل ہے "فَاطَةُ مَدَّتْ بَمَاءٍ" : اس وقت بولتے ہیں جبکہ ایک خرابی کے ساتھ اسی جیسی دوسری خرابی ہو جائے۔ جیسے اردو میں "مفلسی میں آنا گیا" ج فاط۔

الثَّاطَاءُ : بے وقوف عورت۔

تَوَلَّلَ وَتَوَلَّلَ. جَسَدُهُ : سے والا ہونا۔

الثَّوَلُولُ : مسہ۔ اپستان کا سرا۔ مٹھنی ج تَوَلَّلَ.

ثَأَى (ف) ثَأَىا وَثَأَى. الثَّيُّ : چیرنا۔ پھاڑنا۔ کمزور کرنا۔ فاسد کرنا۔ وَالثَّأَى فِي الْقَوْمِ : کشت و خون کرنا۔

ثَثَى (س) ثَأَى. الثَّيُّ : چھد جانا۔ الثَّأَى : زخم کے نشان۔

الثَّأَى : مس۔ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ يَرَأُبُ الثَّأَى" فلاں فساد کی اصلاح کرتا ہے۔

ثَبَّ (ن) ثَبَّابًا : جم کر بیٹھنا۔ و قمار سے بیٹھنا..... الثَّامُ : پورا کرنا۔

ثَبَّتْ (ك) ثَبَّاتَةٌ وَثُبُوتَةٌ : بہادر ہونا۔ صاحب عزم ہونا۔

ثَبَّتْ (ن) ثَبَّاتًا وَثُبُوتًا. فِي الْمَكَانِ : ٹھہرنا۔ قیام کرنا..... عَلَى الْأَمْرِ : مداومت کرنا صفت (ثابت و ثبیت و ثبث)..... الثَّامُ عِنْدَهُ : ثابت ہونا۔ موکل ہونا۔

ثَبَّهَ وَثَبَّهَ : ثابت کرنا..... الْحَقُّ : دلائل سے موکل کرنا۔ نام درج رجسٹر کرنا۔ لکھنا اور کہا جاتا ہے "طَعْنَةٌ فَاتَّبَتْ فِيهِ الرُّمْحُ" اس نے اس کو نیزہ مارا اور گھسا دیا۔

أَثَبَتْ وَثَابَتْ. الثَّامُ : پوری طرح سے پہچاننا۔

إِسْتَبَّتْ وَتَثَبَّتْ. فِي الْأَمْرِ وَالرَّأْيِ : جلدی نہ کرنا۔ مہلت سے کام لینا۔ مشورہ کرنا اور حقیقت کی جستجو کرنا۔

الثَّبْتُ : ثابت ہونا۔ حجت۔ دلیل۔ کہا جاتا ہے "لَا أَحْكُمُ إِلَّا بِالثَّبِّ" میں بغیر حجت و برہان کے فیصلہ نہیں کرتا۔

الثَّبَاتُ : برقع کے بند۔ کجاوہ ہاندھنے کے تھے۔

الثَّبَاتُ : ایسی بیماری جو حرکت سے عاجز کر دینے والی ہو۔ بہادر شہسوار جس کا حملہ بھر پور ہو۔

الْأَثَابُ : ایجاب۔ نفی کی ضد۔

الْأَثَابَاتُ : قوم کے معتبر لوگ۔ مفرد ثَبَّتْ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ ثَبَّتَ مِنَ الْأَثَابِ" یہ مجاز ہے جیسے کہ "فُلَانٌ حُبَّةٌ" جبکہ روایت میں ثَقَدَ ہو۔

الثَّوَابَةُ مِنَ السُّجُومِ : سیاروں کے علاوہ ستارے۔ واحد ثَابَةٌ

دودھ کا جھاگ جو ہاتھ یا برتن میں چپک جائے۔	ثَبْطَةُ (ن) ثَبْطًا وَ ثَبْطَةً. عَنِ الْأَمْرِ: رَوَكْنَا بَارِزْ كَهْنَا..... عَلِيُّ الْأَمْرِ: كَسَى كُوكْسَى كَامٍ بِرِ مَوْقُوفٍ رَكْنَا۔	الْمُثَبِّتُ: مَفْعٌ - ثَمْرًا سَبْعًا بَدَّهَ هُوَا - مُسْرِئُضٌ مُثَبِّتٌ: زِيَادَتِي مَرَضٌ كِي وَجَدَ سَ بَجَّوْنِي سَ جَدَانِدَ هُونِي وَالَا۔
المبشج: زبان آور خطیب۔	أَثْبَطُهُ: الْمَرَضُ: بِيَارِي كَا جَدَانِدَ هُونَا۔	الْمُثَبِّتُ: عِيَاثِيُونِ كَ تَزْوِيَكِ سَا ت رَا زُونِ مِي سَ اِيَكِ رَا زِ۔
تخنجج: الماء بہانا۔ تخنججج: بہانا۔	تَقْطَطُ: عَنِ الْأَمْرِ: دِيرَا كَانَا۔ رَكْنَا۔	ثَبَّجَ (ن) ثَبَّجًا وَ ثَبَّجًا. الْكَلَامُ: ثَبَّجَكَ طَرِيقِي سَ كَفَلُونَا كَرْنَا..... الثَّرَطُ: تَحْرِيرِ مِي غَيْرِ مَعْرُوفِ طَرِيقَتَا سَتَعَالِ كَرْنَا۔
ثَجْرَ (ن) ثَجْرًا. الثمر: مجبور کو برسر کی کھل کے ساتھ بلانا۔	الثبط: كزور۔ بے وقوف۔ ثَجْ ثَبَّاطٌ وَ ثَبَّاطٌ مَوْثَثٌ ثَبَّطَةً۔	ثَبَّجَ (ض) ثَبَّجًا وَ ثَبَّجًا: پَاؤُونِ كِي اَنگُيُونِ پَرِيئِنَا۔
ثَجْرَةٌ: کشادہ کرنا۔ چوڑا کرنا۔	ثَبِقَ (ض) ثَبَّقًا وَ ثَبَّقًا. الثَّهْرُ: پانی کا زیادتی سے تیز بہنا..... العَيْنُ: جلدی آنسو بہانا۔	ثَبَّجَ وَ ثَبَّجَ الرَّاعِي بِالْعَصَا: لَانْحِي كُو پِيئِي پَرِ رَكْهَ كَرَا سَ كِي چِيئِي ہَا تَہْرَ رَكْنَا۔
الثَّجْرَةُ: درمیان۔ وسط۔ کہا جاتا ہے "اقاموا في ثَجْرَةِ الْوَادِي" انہوں نے وادی کے درمیان اقامت کی۔ ہنسی کی ہڈیوں کے درمیان حصہ کا ارد گرد۔ ج ثَجْرَ کہا جاتا ہے "طَعْنُوهُمْ فِي الثَّغْرِ وَ الثَّجْرِ" الثَّجْرُ وَ الثَّجْرُ وَ الثَّجْرُ. مِّنَ الْوَرَقِ وَ نَحْوِهِ: مونا اور چوڑا۔	الثَّبَلُ وَ الثَّبَلُ: برتن کی تلی کا باقی ماندہ۔	ثَبَّجَ وَ ثَبَّجَ الرَّاعِي بِالْعَصَا: لَانْحِي كُو پِيئِي پَرِ رَكْهَ كَرَا سَ كِي چِيئِي ہَا تَہْرَ رَكْنَا۔
الثَّجَلُ (س) ثَجَلًا: بڑے پیٹ والا ہونا صفت (الثَّجَلُ) مَوْثَثٌ ثَجَلًا ج ثَجَلُ کہا جاتا ہے "مَزَادَةُ ثَجَلًا" کشادہ تو شد دان۔	ثَبِنَ (ض) ثَبِنًا وَ ثَبِنًا. الثَّوْبُ: کتارہ موڑ کر لینا۔ (.....) وَ ثَبِنَ الثَّيْبُ: پھاٹک میں لینا۔ پانچام کے نیچے میں رکھ لینا۔	إِتْبَاجٌ. الثَّقَاءُ: بَہْرَ جَانَا..... الرَّجُلُ: مونا اور ڈھیلہ ہونا۔
ثَبَّجَتْ (ض) ثَبَّجًا وَ ثَبَّجَتْ. السَّمَاءُ: جلدی سے برسنا۔ ثَبَّجَتْهُ: جلدی سے باز رکھنا۔	الثَّيْبَةُ ج ثَبْنٌ وَ (الثَّيْبَانُ) ج ثَبْنٌ: پھاٹک۔ الثَّيْبَانُ: چادور کا کتارہ جبکہ اس کو موڑ لیں۔	ثَبَّجَ وَ ثَبَّجَ الرَّاعِي بِالْعَصَا: لَانْحِي كُو پِيئِي پَرِ رَكْهَ كَرَا سَ كِي چِيئِي ہَا تَہْرَ رَكْنَا۔
ثَبَّجُوا (ن) ثَبَّجًا: خاموش رہنا۔	ثَبَّجَتْ (ض) ثَبَّجًا. الثَّيْبُ: جمع کرنا۔	ثَبَّجَ وَ ثَبَّجَ الرَّاعِي بِالْعَصَا: لَانْحِي كُو پِيئِي پَرِ رَكْهَ كَرَا سَ كِي چِيئِي ہَا تَہْرَ رَكْنَا۔
ثَبَّجُوا: خاموش کرنا۔	ثَبَّجَتْ (ض) ثَبَّجًا. الثَّيْبُ: جمع کرنا۔	ثَبَّجَ وَ ثَبَّجَ الرَّاعِي بِالْعَصَا: لَانْحِي كُو پِيئِي پَرِ رَكْهَ كَرَا سَ كِي چِيئِي ہَا تَہْرَ رَكْنَا۔
ثَبَّجُوا: خاموش کرنا۔	ثَبَّجَتْ (ض) ثَبَّجًا. الثَّيْبُ: جمع کرنا۔	ثَبَّجَ وَ ثَبَّجَ الرَّاعِي بِالْعَصَا: لَانْحِي كُو پِيئِي پَرِ رَكْهَ كَرَا سَ كِي چِيئِي ہَا تَہْرَ رَكْنَا۔
ثَبَّجُوا: خاموش کرنا۔	ثَبَّجَتْ (ض) ثَبَّجًا. الثَّيْبُ: جمع کرنا۔	ثَبَّجَ وَ ثَبَّجَ الرَّاعِي بِالْعَصَا: لَانْحِي كُو پِيئِي پَرِ رَكْهَ كَرَا سَ كِي چِيئِي ہَا تَہْرَ رَكْنَا۔
ثَبَّجُوا: خاموش کرنا۔	ثَبَّجَتْ (ض) ثَبَّجًا. الثَّيْبُ: جمع کرنا۔	ثَبَّجَ وَ ثَبَّجَ الرَّاعِي بِالْعَصَا: لَانْحِي كُو پِيئِي پَرِ رَكْهَ كَرَا سَ كِي چِيئِي ہَا تَہْرَ رَكْنَا۔
ثَبَّجُوا: خاموش کرنا۔	ثَبَّجَتْ (ض) ثَبَّجًا. الثَّيْبُ: جمع کرنا۔	ثَبَّجَ وَ ثَبَّجَ الرَّاعِي بِالْعَصَا: لَانْحِي كُو پِيئِي پَرِ رَكْهَ كَرَا سَ كِي چِيئِي ہَا تَہْرَ رَكْنَا۔
ثَبَّجُوا: خاموش کرنا۔	ثَبَّجَتْ (ض) ثَبَّجًا. الثَّيْبُ: جمع کرنا۔	ثَبَّجَ وَ ثَبَّجَ الرَّاعِي بِالْعَصَا: لَانْحِي كُو پِيئِي پَرِ رَكْهَ كَرَا سَ كِي چِيئِي ہَا تَہْرَ رَكْنَا۔
ثَبَّجُوا: خاموش کرنا۔	ثَبَّجَتْ (ض) ثَبَّجًا. الثَّيْبُ: جمع کرنا۔	ثَبَّجَ وَ ثَبَّجَ الرَّاعِي بِالْعَصَا: لَانْحِي كُو پِيئِي پَرِ رَكْهَ كَرَا سَ كِي چِيئِي ہَا تَہْرَ رَكْنَا۔
ثَبَّجُوا: خاموش کرنا۔	ثَبَّجَتْ (ض) ثَبَّجًا. الثَّيْبُ: جمع کرنا۔	ثَبَّجَ وَ ثَبَّجَ الرَّاعِي بِالْعَصَا: لَانْحِي كُو پِيئِي پَرِ رَكْهَ كَرَا سَ كِي چِيئِي ہَا تَہْرَ رَكْنَا۔
ثَبَّجُوا: خاموش کرنا۔	ثَبَّجَتْ (ض) ثَبَّجًا. الثَّيْبُ: جمع کرنا۔	ثَبَّجَ وَ ثَبَّجَ الرَّاعِي بِالْعَصَا: لَانْحِي كُو پِيئِي پَرِ رَكْهَ كَرَا سَ كِي چِيئِي ہَا تَہْرَ رَكْنَا۔
ثَبَّجُوا: خاموش کرنا۔	ثَبَّجَتْ (ض) ثَبَّجًا. الثَّيْبُ: جمع کرنا۔	ثَبَّجَ وَ ثَبَّجَ الرَّاعِي بِالْعَصَا: لَانْحِي كُو پِيئِي پَرِ رَكْهَ كَرَا سَ كِي چِيئِي ہَا تَہْرَ رَكْنَا۔
ثَبَّجُوا: خاموش کرنا۔	ثَبَّجَتْ (ض) ثَبَّجًا. الثَّيْبُ: جمع کرنا۔	ثَبَّجَ وَ ثَبَّجَ الرَّاعِي بِالْعَصَا: لَانْحِي كُو پِيئِي پَرِ رَكْهَ كَرَا سَ كِي چِيئِي ہَا تَہْرَ رَكْنَا۔
ثَبَّجُوا: خاموش کرنا۔	ثَبَّجَتْ (ض) ثَبَّجًا. الثَّيْبُ: جمع کرنا۔	ثَبَّجَ وَ ثَبَّجَ الرَّاعِي بِالْعَصَا: لَانْحِي كُو پِيئِي پَرِ رَكْهَ كَرَا سَ كِي چِيئِي ہَا تَہْرَ رَكْنَا۔
ثَبَّجُوا: خاموش کرنا۔	ثَبَّجَتْ (ض) ثَبَّجًا. الثَّيْبُ: جمع کرنا۔	ثَبَّجَ وَ ثَبَّجَ الرَّاعِي بِالْعَصَا: لَانْحِي كُو پِيئِي پَرِ رَكْهَ كَرَا سَ كِي چِيئِي ہَا تَہْرَ رَكْنَا۔
ثَبَّجُوا: خاموش کرنا۔	ثَبَّجَتْ (ض) ثَبَّجًا. الثَّيْبُ: جمع کرنا۔	ثَبَّجَ وَ ثَبَّجَ الرَّاعِي بِالْعَصَا: لَانْحِي كُو پِيئِي پَرِ رَكْهَ كَرَا سَ كِي چِيئِي ہَا تَہْرَ رَكْنَا۔
ثَبَّجُوا: خاموش کرنا۔	ثَبَّجَتْ (ض) ثَبَّجًا. الثَّيْبُ: جمع کرنا۔	ثَبَّجَ وَ ثَبَّجَ الرَّاعِي بِالْعَصَا: لَانْحِي كُو پِيئِي پَرِ رَكْهَ كَرَا سَ كِي چِيئِي ہَا تَہْرَ رَكْنَا۔
ثَبَّجُوا: خاموش کرنا۔	ثَبَّجَتْ (ض) ثَبَّجًا. الثَّيْبُ: جمع کرنا۔	ثَبَّجَ وَ ثَبَّجَ الرَّاعِي بِالْعَصَا: لَانْحِي كُو پِيئِي پَرِ رَكْهَ كَرَا سَ كِي چِيئِي ہَا تَہْرَ رَكْنَا۔
ثَبَّجُوا: خاموش کرنا۔	ثَبَّجَتْ (ض) ثَبَّجًا. الثَّيْبُ: جمع کرنا۔	ثَبَّجَ وَ ثَبَّجَ الرَّاعِي بِالْعَصَا: لَانْحِي كُو پِيئِي پَرِ رَكْهَ كَرَا سَ كِي چِيئِي ہَا تَہْرَ رَكْنَا۔
ثَبَّجُوا: خاموش کرنا۔	ثَبَّجَتْ (ض) ثَبَّجًا. الثَّيْبُ: جمع کرنا۔	ثَبَّجَ وَ ثَبَّجَ الرَّاعِي بِالْعَصَا: لَانْحِي كُو پِيئِي پَرِ رَكْهَ كَرَا سَ كِي چِيئِي ہَا تَہْرَ رَكْنَا۔
ثَبَّجُوا: خاموش کرنا۔	ثَبَّجَتْ (ض) ثَبَّجًا. الثَّيْبُ: جمع کرنا۔	ثَبَّجَ وَ ثَبَّجَ الرَّاعِي بِالْعَصَا: لَانْحِي كُو پِيئِي پَرِ رَكْهَ كَرَا سَ كِي چِيئِي ہَا تَہْرَ رَكْنَا۔
ثَبَّجُوا: خاموش کرنا۔	ثَبَّجَتْ (ض) ثَبَّجًا. الثَّيْبُ: جمع کرنا۔	ثَبَّجَ وَ ثَبَّجَ الرَّاعِي بِالْعَصَا: لَانْحِي كُو پِيئِي پَرِ رَكْهَ كَرَا سَ كِي چِيئِي ہَا تَہْرَ رَكْنَا۔
ثَبَّجُوا: خاموش کرنا۔	ثَبَّجَتْ (ض) ثَبَّجًا. الثَّيْبُ: جمع کرنا۔	ثَبَّجَ وَ ثَبَّجَ الرَّاعِي بِالْعَصَا: لَانْحِي كُو پِيئِي پَرِ رَكْهَ كَرَا سَ كِي چِيئِي ہَا تَہْرَ رَكْنَا۔
ثَبَّجُوا: خاموش کرنا۔	ثَبَّجَتْ (ض) ثَبَّجًا. الثَّيْبُ: جمع کرنا۔	ثَبَّجَ وَ ثَبَّجَ الرَّاعِي بِالْعَصَا: لَانْحِي كُو پِيئِي پَرِ رَكْهَ كَرَا سَ كِي چِيئِي ہَا تَہْرَ رَكْنَا۔
ثَبَّجُوا: خاموش کرنا۔	ثَبَّجَتْ (ض) ثَبَّجًا. الثَّيْبُ: جمع کرنا۔	ثَبَّجَ وَ ثَبَّجَ الرَّاعِي بِالْعَصَا: لَانْحِي كُو پِيئِي پَرِ رَكْهَ كَرَا سَ كِي چِيئِي ہَا تَہْرَ رَكْنَا۔
ثَبَّجُوا: خاموش کرنا۔	ثَبَّجَتْ (ض) ثَبَّجًا. الثَّيْبُ: جمع کرنا۔	ثَبَّجَ وَ ثَبَّجَ الرَّاعِي بِالْعَصَا: لَانْحِي كُو پِيئِي پَرِ رَكْهَ كَرَا سَ كِي چِيئِي ہَا تَہْرَ رَكْنَا۔
ثَبَّجُوا: خاموش کرنا۔	ثَبَّجَتْ (ض) ثَبَّجًا. الثَّيْبُ: جمع کرنا۔	ثَبَّجَ وَ ثَبَّجَ الرَّاعِي بِالْعَصَا: لَانْحِي كُو پِيئِي پَرِ رَكْهَ كَرَا سَ كِي چِيئِي ہَا تَہْرَ رَكْنَا۔
ثَبَّجُوا: خاموش کرنا۔	ثَبَّجَتْ (ض) ثَبَّجًا. الثَّيْبُ: جمع کرنا۔	ثَبَّجَ وَ ثَبَّجَ الرَّاعِي بِالْعَصَا: لَانْحِي كُو پِيئِي پَرِ رَكْهَ كَرَا سَ كِي چِيئِي ہَا تَہْرَ رَكْنَا۔
ثَبَّجُوا: خاموش کرنا۔	ثَبَّجَتْ (ض) ثَبَّجًا. الثَّيْبُ: جمع کرنا۔	ثَبَّجَ وَ ثَبَّجَ الرَّاعِي بِالْعَصَا: لَانْحِي كُو پِيئِي پَرِ رَكْهَ كَرَا سَ كِي چِيئِي ہَا تَہْرَ رَكْنَا۔

الْقَدَمُ: كَثَبُوا وَرَحَّتْ فِيهَا عَاجِزٌ - يَوْقُوفٌ - سَتٌ - مَوْنٌ قَدَمَةٌ. الْيَدَامُ: يَجْتَنُّهُ - تَدِينُ (س) تَدِينُنا: اللِّحْمُ: بدبودار ہونا۔ (.....) وَتَدِينُ الرَّجُلَ: پَرُ گوشت اور بیماری ہونا صفت (تَدِينُ وَتَدِينُ) أَدِينُ الشَّيْءَ: چھوٹا کرنا۔ قَدَاهُ (ف) تَدَوُّوا: تر کرنا۔ قَدِي (س) تَدَى: تر ہونا۔ الشَّدَى وَالشَّدَى: پستان (مذکر مَوْنٌ) ج تَدَى وَتَدَى وَأَتَدَى. الْقَدِيَاءُ: بڑی پستان والی عورت۔ قَدَرُ (ن) قَدَّرَ وَتَوَدَّرَ وَتَوَدَّرَةٌ. الشَّيْءُ: کَشَادَه ہونا..... السَّحَابَةُ أَوْ الْعَيْنُ: بہت پانی والا ہونا۔ صفت مَوْنٌ (تَوَدَّرَ) کہا جاتا وَ تَوَدَّرُ صفت مذکر (تَوَدَّرَ) تَوَدَّرَ کہا جاتا ہے۔ "مَطْرَقَةٌ" بڑی بوندوں کی کثیر بارش "وَفَرَسٌ قَدَرٌ" کَشَادَه قدم رکھنے والا گھوڑا۔ "كَبْلَةٌ قَدَرَةٌ" کَشَادَه سوراخ۔ پستان اور زیادہ دودھ والی بکری۔ قَدَرَةٌ (ن) قَدَرًا: متفرق کرنا..... السَّحَابَةُ عَنَمَاها: برسنا۔ تَوَدَّرَ: المَكَانُ: تر کرنا۔ الشَّرُّ: بہت بولنے والا۔ الفَارَّةُ: بہت بولنے والی۔ الْقَرَارَةُ: مِنَ الْعَيْنِ: بہت پانی والا چشم۔ شَرَبَهُ (ش) تَشْرَبُ وَتَشْرَبَةٌ وَتَشْرَبُ عَلَيْهِ وَتَشْرَبُهُ: مِلَامَت کرنا۔ لعل کی مذمت کرنا۔ "أَثْرَبُ الكَيْشِ": زیادہ پردے کی چربی والا ہونا۔ صفت (أَثْرَبُ) مَوْنٌ تَرَبَانَا. الشَّرْبُ: پردے کی چربی۔ ج تَشْرُبُ وَأَثْرَبُ جِ اثْرَابٍ. تَشْرَبُ تَشْرَبُ تَشْرَبُ. الشَّيْءُ: کھینچنا۔ متفرق کرنا..... السَّكَلَامُ: دایہ تباہی بک بک کرنا۔ صفت (تَوَدَّرَ) تَوَدَّرَ (ن) تَوَدَّرُوا تَوَدَّرُوا. المَحْيَظُ: روٹی توڑ کر شور بے میں تر کرنا۔ صفت مقعولی	(شَرِيدٌ وَفَرُودٌ) شَرِيدٌ تَارِكٌ تَارِكَةٌ الشُّوبُ: کپڑا رنگ میں بھگوننا۔ فُرُودٌ وَفُرُودٌ: مِنَ المَعْرِكَ: میدان جنگ سے زخمی اٹھایا جانا۔ الفُرُودُ: لہکی بارش۔ الفُرُودُ: ہونٹوں کی پھٹن۔ الْفُرُودُ: پھٹے ہوئے ہونٹوں والا۔ الشَّرِيدُ وَالشَّرِيدَةُ: شور بے میں ترکی ہوئی روٹی۔ ج تَوَدَّرَ وَفُرُودٌ. أَرْضٌ (مَشْرُودَةٌ وَفُرُودَةٌ): زمین جس میں لہکی بارش ہوئی ہو۔ فُرُوعُ (س) فُرُوعًا: الرَّجُلُ: بھٹلی ہونا۔ الشُّرُوعَةُ: سرخ کی گردن کے پر۔ الفُرُوعُ: مادہ لومڑی۔ الشُّرُوعُولُ: ایک قسم کی گھاس۔ فُرُمَةٌ (ش) فُرُمًا وَفُرُمَةٌ: جڑ سے دانت توڑنا۔ فُرُمٌ (س) فُرُمًا وَفُرُمٌ: ٹوٹے ہوئے دانت والا ہونا۔ صفت فُرُمٌ: مَوْنٌ فُرُمًا: ج فُرُمٌ. الفُرُمَانُ: ایک درخت ہے اشنان کی مانند جس کو اونٹ اور بکری کھاتے ہیں۔ الْفُرُمَانُ: شب و روز۔ زمانہ و موت۔ فُرَا (ن) فُرَاءٌ وَفُرَى (س) فُرَى. الرَّجُلُ: بہت مال والا ہونا۔ ثَوَاة: مالدار میں بڑھ جانا۔ فُرُ اللہ القَوْمُ: زیادہ کرنا۔ الشَّرَى: الفُرَا: بہت مال والا ہونا۔ صفت (فُرَى وَفُرَى وَفُرَى) مَوْنٌ فُرُوا۔ الفُرَا وَفُرَا: مال یا قوم کی کثرت۔ الشَّرَى: مالدار عورت (فُرَا) کی تصغیر ستاروں کے مجموعے کا نام۔ حجاز۔ الشَّرَوَانُ: بہت مال والا۔ فُرَى (س) فُرَى وَفُرَى: الشَّرَابُ: خشک ہونے کے بعد تر و نرم ہونا۔ صفت (فُرَى وَفُرَى) مَوْنٌ فُرَا۔ الشَّرَى: مَوْنٌ فُرَا۔ الْأَرْضُ: زمین کا نمناک ہونا۔ فُرَى: تر کرنا..... المَكَانُ: چھڑکنا۔
--	---

نیچے چڑھ بچھانا..... الشبی: یکبارگی بلخیر دینا۔

أثفل: النخمر: بھرتا..... الشراب: تلچھٹ والا ہونا۔

ثأفلہ: ہم نشینی کرنا۔

تثفل: مجد و بزرگی سے کوتاہ ہونا۔ کہا جاتا ہے "تثفلہ عرقی سؤیہ": اس کو بد اسلی نے مجد و بزرگی سے کوتاہ بنا دیا۔ اسنہ: بیٹھنا۔

الثفال: ست رفتار اونٹ وغیرہ۔

الشفال: چکی کے نیچے بچھانے کا چڑھا۔ (..... والثفال) چکی کا نچلا پاٹ۔

الثفل والثفال: تلچھٹ۔

تفتت (ض) تفتنا: الناقة: گھنے سے مارنا۔

تفتنه: دفع کرنا۔ مارنا۔ تفتن الشی: لازم ہونا۔

تفتنت (س) تفتنا: یدہ: کام کرنے سے سخت ہونا۔ اتفن العمل یدہ: سخت کر دینا۔

تفتنه: ہم زانو ہو کر بیٹھنا۔ کسی کے ساتھ لگے رہنا یہاں تک کہ اس کا مجید معلوم کر لینا..... علی محمد: اند کرنا۔

التفینة: من البعیر: اونٹ کا وہ حصہ جو بیٹھتے ہوئے زمین پر لگے اور سخت ہو گیا ہو کہا جاتا ہے "خوی البعیر علی تفتناته" یعنی اونٹ

بیٹھ گیا۔ من الانسان: زانو..... من الخیل: گھوڑے کے زانو کا اندرونی حصہ۔ ج تفتنات السفینة: لوگوں کی جماعت۔

تفسا (ن) تفسوا: ہ: تابع ہونا..... بیروی کرنا۔ پیچھے جانا۔

أثفی: الرجل: تین عورتوں سے نکاح کرنا (..... وثفی) القدر: ہانڈی کو چوہے کے پایہ پر رکھنا۔

المثقی: وہ شخص جو تین یا زیادہ بیویوں کو دفن کر چکا ہو۔

المثفاة: وہ عورت جس کے تین یا زیادہ شوہر مر چکے ہوں۔

ثقب (ن) ثقبا: الشی: سوراخ کرنا۔

حمیدنا (..... ثقونا) النار: روشن ہونا.....

كُرْحَا: آسان راستہ اور اسی سے "هسو" یسخرق ثغر المسجد: وہ بزرگی کے راستوں پر چلتا ہے۔

الثغور: ملک کی سرحدوں پر خوف کی جگہ۔ المثغر: منفذ۔

الثغوب: زردوانت۔

الثغم: الوادی: درخت نعامہ والی ہونا..... الرأس: سفید ہونا..... الرجل: غضب ناک بنانا۔ بتلا: بد پیشی کرنا۔

ثاغمه: بوسہ دینا۔ الثغيم: کائے والا کتا۔

الثغام: ایک قسم کا سفید پھولوں والا درخت واحد نعامہ۔ الثاغيم: سفید۔

الثقلان: جن وانس۔

ثغت (ن) ثغاء: الشاة: ممانا کہا جاتا ہے "ماله ثاغية ولا زاعية" اس کے پاس نہ بکری ہے نہ اونٹنی۔ "وما بالدار ثاغ ولا راغ" یعنی گھر میں کوئی نہیں۔

أثغى الثغاء: الشاة: ممانے پر ا کسانا۔ کہا جاتا ہے "أثغى فما اتغى ولا أزعى" میں اس کے پاس آیا تو اس نے نہ بکری دی نہ اونٹنی۔

الثغية: بھوک اور قبیلہ کا خالی ہونا۔ کہا جاتا ہے "أصاب الحی ثغية" قبیلہ بھوک میں بتلا ہے۔

تقار (ف) ثغفا: القدر: جوش شند کرنا۔

الثغاء: رائی۔ واحد (ثغائة)

ثغد: الدرغ: زرہ کو لباس کے نیچے پہننا۔

الثغافید: اوپر تلے سفید بادل (..... و المثغافید) کپڑے کے آستر۔ واحد منفذ۔

الثغر و الثغر: الحمار: پیچھے سے ہانکنا۔

استشفر: الكلب بذنبه: ڈوم بانا۔

المضارع بثوبه: تلوٹ کنا۔

الثغر والثغر: زرین کے پچھلے حصہ کا اسم ج الثغار۔

ثقل (ن) ثقلان و ثقل: الرمی: چکی کے

ثعلب و ثعلب: لومڑی کی طرح مکرو فریب کرنا۔

الثعلب: لومڑی۔ جس کے متعلق مشہور ہے کہ اس کے بال ہر سال گر جاتے ہیں اور اسی

سے ہے "داء الثعلب" اس بیماری کا نام ہے جس میں بال گرتے ہیں۔ مادہ کو ثعلبة اور

ثركو ثعلبان کہتے ہیں اور ثعلب کا اطلاق مذکورہ نٹ دونوں پر ہوتا ہے۔ ج ثعلاب و ثعال۔ الثعلب: بھالے کا سر جو پھل کے اندر

داخل ہو۔ الثعلبية: دم کی ہڈی۔ سرین۔

عنب الثعلب: کبوتے۔ کہا جاتا ہے "مکان الثعلب" و أرض (ثعلبية) بہت لومڑیوں والی جگہ یا زمین۔

غفع كلالمة: خلط ملط ہونا۔

بھو تفتع و تفتاع: کہا جاتا ہے فلاں اپنی کلام میں خلط ملط کرتا ہے۔

ثعب (ض) ثغبا: الجمذ: پھلنا۔ الدم: بہنا۔

تثغبت: لثتہ بالدم: مسوڑھے سے خون بہنا۔

الثعب ج ثغاب و الثغاب و (الثعب) ج ثغبان و ثغبان: پہاڑ کے سایہ میں تالاب

جہاں دھوپ نہ پہنچے اور اس وجہ سے پانی ٹھنڈا ہو۔

ثغر (ف) ثغرا: الاناء: سوراخ کرنا یا توڑنا..... سبہ: اکھڑنا..... الثلمة: بند کرنا.....

الجدار: گردینا..... الرجل: دانت توڑنا۔ کہا جاتا ہے "ثغروهم و ثغرو علیہم" اس نے ان پر پہاڑ کے ورے کو بند کر دیا۔

ثغر و الثغر: منہ کچلا جانا..... الصبی: دانت ٹوٹنا یا ٹکنا۔

الثغر و الثغر: الصبی: دانت ٹوٹنا یا ٹکنا۔ الثغر: اٹکے دانت۔ منہ۔ سرحد۔ پہاڑ یا

وادی کی کشادگی۔ ج ثغور کہا جاتا ہے "أمسوا ثغورا" یعنی وہ لوگ متفرق ہو گئے۔

الثغرة: رخسہ۔ منہ کی ہڈیوں کے درمیان کا

النَّجْمُ: چمکنا..... الطَّائِرُ: اونچا اڑنا.....
 النَّاقَةُ: بہت دودھ والی ہونا..... زَايَةُ: نافذ
 ہونا..... الرَّايحةُ: پھیلا۔
 ثَقَبَ (ک) ثِقَابَةً: سرخی میں آگ کے
 مشابہ ہونا۔ صفت (ثَقِيْبٌ) مَوْنُثٌ ثَقِيْبَةٌ.
 ثَقَّبَ وَتَثَقَّبَ. الثَّشِيُّ: سوراخ کرنا۔
 چھیدنا۔ ثَقَّبَهُ الثَّيْبُ وَثَقَّبَ فِيهِ
 الثَّيْبُ: بڑھا پاٹا ہونا۔ (ثَقَّبَ
 وَاتَّقَبَ) النَّارُ: روشن کرنا (تَثَقَّبَ
 وَانْتَقَبَ) سوراخ ہونا۔
 الثَّقَبُ: سوراخ۔ جِ الثَّقَبِ وَثُقُوبِ.
 الثَّقَبَةُ: چھوٹا سوراخ۔ جِ الثَّقَبِ وَثُقُبِ.
 الثَّقَابُ وَالثَّقُوبُ: چھوٹی۔ چھوٹی چھوٹی
 لکڑیاں جن سے آگ سلائی جاتی ہے اور
 جس کو عوام شحط یا فط کہتے ہیں۔
 الشَّاقِبُ: زای ثاقِبٌ: عمدہ رائے۔ ”عقل
 ثاقِبٌ“ عقل کامل۔ حَسْبُ ثاقِبٌ: مشہور
 حسب کہا جاتا ہے نحن اَثَقِبُ النَّاسِ
 أَحْسَابًا: ہم لوگوں میں حسب کے لحاظ سے
 مشہور ہیں۔
 الْأَثَقُوبُ: اُمور میں بہت زیادہ دخل دینے
 والا۔
 المِثْقَبُ: برما۔ سوراخ کرنے کا اوزار۔ کہا
 جاتا ہے ”رَجُلٌ مِثْقَبٌ“ یعنی سمجھ دار تجربہ کار
 عمدہ رائے والا۔
 المِثْقَبُ وَالمِثْقَبُ: بڑا راستہ۔ سخت و دشوار
 راستہ۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ طَلَعُ المِثْقَابِ“:
 یعنی وہ بہادر ہے
 المِثْقَبُ: سوراخ کیا ہوا۔
 ثَقِفَ (س) وَثَقَّفَ (ک) ثَقْفًا وَثَقْفًا
 وَثِقَافَةً: زیرک و سبک و چالاک ہونا۔ صفت
 (ثَقْفٌ وَثَقْفٌ وَثَقْفٌ وَثَقِيْفٌ)
 ثَقِفْهُ (س) ثَقْفًا: کامیاب ہونا۔ فتح مند
 ہونا۔ پالینا..... ثَقْفًا وَثِقَافَةً وَثَقُوفَةً)
 الكلام: جلدی سے سمجھ لینا۔
 ثَقَّفَهُ (ن) ثَقْفًا: دانائی میں غالب ہونا۔
 بِالرَّحْمَةِ: بیزہ مارنا۔

ثَقَّفَ. الثَّقَفُ: سیدھا کرنا..... السَّوْدُ:
 مہذب بنانا۔ تعلیم دینا۔
 ثَقَّفَهُ: تمھیاروں سے باہم کیلنا۔ دانائی میں
 غالب ہونے کی کوشش کرنا۔ جھگڑا کرنا۔ کہا
 جاتا ہے ”ثَقَّفْتُهُ فَثَقَّفْتُهُ“: یعنی میں نے اس
 پر غالب آنے کی کوشش کی اور غالب ہو گیا۔
 ثَقَّفْنَا: باہم جھگڑا کرنا۔ دانائی میں ایک
 دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرنا۔
 الثَّقَافُ: جھگڑا نیزوں کے سیدھا کرنے کا
 اوزار۔
 اِمْرَاةٌ (ثَقَافٌ) ذکی و ذہین عورت۔
 الثَّقِيْفُ: بہت زیرک و چالاک..... حَلَّ
 يَثَقِيْفُ: بہت کھاسر کر۔
 الْمُثَقَّفُ: شعراء کے عرف میں بمعنی نیزہ۔
 ثَقُلَ (ک) ثَقْلًا وَثِقَالَةً: بھاری ہونا۔
 صفت (ثَقِيْلٌ وَثِقَالٌ وَثِقَالٌ) جِ ثَقْلًا
 وَثِقَالٌ وَثَقُلُ..... السَّمْعُ: کچھ بھرا ہونا.....
 القَوْلُ: سننا ناگوار ہونا..... المَرْأَةُ: حمل ظاہر
 ہونا۔
 ثَقَلَهُ (ن) اَثَقَلًا: وزن معلوم کرنے کے لئے
 ہاتھ میں اٹھانا۔
 ثَقُلَ (ک) ثَقْلًا: المَرِيضُ: سخت بیمار
 ہونا۔
 ثَقَلَهُ: بوجھل کرنا..... الحَرْفُ: تشدید دینا
 عَلَيْهِ: بھاری بوجھ لادنا.....
 المَرَضُ: سخت ہونا۔ ”اَثَقَلَتِ المَرْأَةُ“ حمل کا
 بھاری ہونا اور ولادت کا وقت قریب ہونا۔
 تَثَقَّلَ: جھکھٹ ٹھل ظاہر کرنا..... غَنَهُ: دیر لگانا
 القَوْمُ: باوجود مدد طلب کئے جانے کے
 مدد کے لئے نہ اٹھنا۔
 اِنْتَقَلَ: اِلَى الدُّنْيَا: مائل ہونا۔
 اِسْتَقْلَلَ - الثَّشِيُّ: بوجھل ہونا
 الثَّشِيُّ: بوجھل پانا..... بِفُلَانٍ: بوجھ کو
 محسوس کرنا۔
 الشَّقِيْلُ: بوجھل۔ مَرَضٌ ثاقِلٌ: سخت مرض۔
 دِيْنًا ثاقِلٌ: پورا دینار۔ جِ ثَقْوَالِ کہا جاتا
 ہے ”أَصْبَحَ ثاقِلًا“ یعنی اس کو مرض نے

بوجھل کر دیا۔
 الثَّقِلُ: مسافر کا سامان اور اس کے نوکر
 چاکر۔ کہا جاتا ہے ”أَغْطِيهِ ثِقْلُهُ“ اس کو اس
 کے برابر دید و جِ اَثَقَالِ. وَالثَّقَالُ: زمین
 کے خزانے اور دینے۔ مُرَدٌ۔ قرآن مجید
 میں ہے: ﴿وَآخِرَ حَرْجَتِ الْأَرْضِ
 اَثَقَالُهَا﴾ اور زمین اپنا بوجھ باہر نکال پھینکے
 گی۔
 الثَّقَلُ: گرانباری۔
 الثَّقَلُوثُ الْأَقْدَسُ: معبودات کے تین
 اقاہیم میں سے تیسرا اقوم ثلاثہ۔
 الثَّقَلَةُ وَالثَّقَلَةُ وَالثَّقَلَةُ وَالثَّقَلَةُ
 وَالثَّقَلَةُ: بکل ساز و سامان۔ کہا جاتا ہے
 ”وَإِنْ تَحَلَّوْا بِثَقْلِنَاهِمُ“ وہ لوگ مع اپنے
 پورے ساز و سامان کے چلے گئے۔
 الثَّقَلَةُ: پیٹ میں خوراک کی گرانی۔ اونگھ۔ کہا
 جاتا ہے ”وَجَدْتُ ثَقْلَةً فِي جَسَدِي“ میں
 نے اپنے بدن میں سستی محسوس کی۔
 المِثْقَالُ: تولنے کے اوزان۔ مِثْقَالٌ
 الثَّشِيُّ: چیز کا وزن یا چیز کی ترازو۔ جِ
 مِثْقَالِ اور مِثْقَالِ: عرف میں ڈیزہ درہم
 کے وزن کا ہوتا ہے اور کبھی کم اور کبھی
 زیادہ۔
 ثِكْلٌ (س) ثِكْلًا وَثِكْلًا: اِبْنَةٌ: گم کرنا۔
 صفت (ثِكاكِلٌ وَثِكاكِلَانٌ) مَوْنُثٌ ثِكاكِلٌ
 وَثِكاكِلَةٌ وَثِكاكِلِيٌّ جِ ثِكاكِلِ وَثِكاكِلِيٌّ.
 اَثَكَلَ: الْأَمُّ وَكَلَدَهَا وَاَثَكَلَ الْوَلَدَ: اَمَةٌ: بچے
 سے ماں کو گم کر دینا اور ماں کے سامنے بچے
 کا مرجانا۔
 الْفِكاكِلُ وَالمِثْكاكِلُ: بچے کو بہت گم کرنے والی
 عورت۔ جمع مِثْكاكِلِيٌّ: کہا جاتا ہے ”بِئْسَاءُ
 الْعُرَاةُ مِثْكاكِلِيٌّ“ غازیوں کی عورتیں بچے کو گم
 کرنے والی ہیں۔
 الْمُثْكاكِلَةُ: سبب گمشدگی فرزند۔ کہا جاتا ہے
 رُمُوحُهُ لِلْوَالِدَاتِ مُثْكاكِلَةٌ“ اس کا نیزہ ماؤں
 کے لئے بچوں کے گم کرنے کا سبب ہے۔
 ثِكاكِمٌ (ن) ثِكاكِمًا: الْأَمْرُ وَالطَّرِيْقُ: کسی امر یا

کسی راستے کے لئے لازم ہونا۔ الْأَثَارُ: پیروی کرنا..... لہ الامر: واضح طریقہ سے بیان کرنا۔ وَتَكْمٌ (س) تَكْمًا۔ بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ تَكْمٌ الطَّرِيقِ وَتَكْمَتُهُ: راستہ کا درمیان۔ ثَلَّ (ن) ثَلًّا. الْبَسْرُ: کنوئیں سے مٹی نکالنا السَّوْعَاءُ: برتن سے سب کچھ نکال لینا (..... فَالْأَسْلَامُ الْقَوْمُ: ہلاک کرنا..... الْبَيْتُ: گرا دینا۔ ڈھا دینا۔ کہا جاتا ہے ثَلَّ الْبَيْتَ عَرَشَهُمْ یعنی اللہ نے ان کے ملک کو برباد کر دیا۔ وِثْلُ عَرَشِهِمْ: اُن کی عزت ضائع ہو گئی..... الشَّرَابُ: گرا نا۔ ڈالنا..... قَلَّ ذِي حَافِرٍ: لید کرنا۔ أَثَلَهُ أَثْلًا: مرمت کرنے کا حکم دینا۔ الْبَرْجُلُ: بہت بھیڑوں والا ہونا۔ فَمَهُ: بے دانت والا ہونا۔ تَقَلَّلَ: البَيْتُ: آہستہ آہستہ گرا نا۔ إِنْقَلَبَ: ڈھے جانا۔ گر جانا۔ الْعَلَلُ: ہلاکت۔ دانتوں کا گرا نا۔ الْبَلَّةُ: ہلاکت۔ ج ثَلَّلَ۔ الْبَلَّةُ: بھیڑوں کا ریوڑ۔ اُون۔ کہا جاتا ہے "كَيْسَاءُ جَبَدَ الْبَلَّةُ" عمدہ اُون کا کھیل۔ کنوئیں کی نکالی ہوئی مٹی۔ ج ثَلَّلَ وَاللَّالُ: اُون ہال اور اُونوں کے ہال کا مجموعہ۔ الْبَلَّةُ: لوگوں کی جماعت۔ کہا جاتا ہے "فَلَايَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْبَلَّةِ وَالْبَلَّةِ" فلاں بھیڑوں اور آدمیوں کی جماعت میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ الْبَلَّةُ: نیستی و ہلاکی۔ جمع ثَلَّلَ۔ الْمَثَلَةُ: بیابان میں سائبان۔ قَلْبَهُ (ض) ثَلْبًا: عیب لگانا۔ ملامت کرنا۔ غیبت کرنا۔ گالی دینا۔ دھکارنا..... الشَّيْ: رخسہ ڈالنا۔ ثَلَّبَ: الرَّجُلُ: بہت بوڑھا ہونا اور دانتوں کا گر جانا۔	قَلْبٌ (س) ثَلْبًا. الشَّيْ: رخسہ دار ہونا۔ الْجَلْدُ: سکرنا۔ الْبَلْبُ: بوڑھا اونٹ جس کے دانت گر گئے ہوں۔ ج ثَلْبَةٌ وَثَلْبٌ۔ وَالْبَلْبُ: عیب دار۔ ذلیل۔ رُفُوحٌ قَلْبٌ: رخسہ دار نیزہ۔ الْإِثْلُبُ وَالْأَثْلُبُ: مٹی یا پتھر کا چورہ۔ ج أَقَابِلُ۔ الْبَثْلُ: وہ شخص جس کی عادت عیب لگانے کی ہو۔ الْمَثَلَةُ: عیب۔ گالی۔ کہا جاتا ہے "مَاعَرَفْتُ فِيهِ مَثَلَةً" میں اس کے اندر کوئی عیب نہیں جانتا۔ ج مَثَالِبُ. مَثَالِبُ الْأَمْرِ: کسی امر کے عیوب۔ ثَلَّتْ (ن) ثَلَّتًا. الشَّيْ: تہائی لینا۔ الْقَوْمُ: تہائی مال لے لینا۔ تیسرا ہونا۔ ثَلَّتْ: الْأَثْمِينُ: اپنے کو ملا کر تین کر دینا الشَّيْ: مثلث بنانا..... الشَّرَابُ: تہائی باقی رہنے تک پکانا..... الشَّيْ: تین مرتبہ کرنا۔ أَقْلَبْتُ: الْقَوْمُ: تین ہونا۔ تیس ہونا۔ مثلاً "تَحْمَانُوا تِسْعَةً وَعِشْرِينَ فَاقْتَلُوا" وہ لوگ اتیس تھے میں ہو گئے۔ الْقَلَاثَةُ: تین۔ مَوْنُثُ ثَلَاثٌ۔ ذُو الثَّلَاثِ: تین لٹ والی رسی اور تم کہتے ہو "فَعَلَهُ ثَلَاثًا" اس نے اس کو تین مرتبہ کیا۔ الْبَلْتُ: اُونٹنی کا تیسرا بچہ۔ کہا جاتا ہے "سَقَى ذُرْعَهُ الْبَلْتُ" اس نے اپنے کھیت کو تین دن میں ایک مرتبہ پانی دیا۔ الْبَلْتُ وَالْبَلْتُ: تہائی۔ ج أَثْلَاثٌ اور اسی معنی میں (الْبَلْتُ) ہے۔ الْفَلَاثَاءُ وَالْفَلَاثَاءُ وَيَوْمُ الْفَلَاثَاءِ: منگل۔ اس کا شنیہ فَلَاحَاءُ ان اور جمع ثَلَاثَاتُ وَالْفَلَاثَاءُ ات وَاثَلَتْ۔ الْحَطُّ الثَّلْثِيُّ: موٹے حروف والا خط۔ اتواثَلَاتُ أَوْ مَثَلَتْ: وہ تین تین آئے۔ یہ غیر منصرف ہے اور مذکر و مؤنث دونوں کے	لئے یکساں ہے۔ الْفَلَانُ وَالْفَلَانُ: لکونے کا پودہ۔ الْفَلَاثُونُ: تیس (مذکر و مؤنث) الْقَالُوتُ: تین سے مرکب۔ الْمَثَلُتُ: جو تانت کہ تین لٹ کا ہو۔ برابطہ۔ یا جاکہ تیسرا تانت۔ ج مَثَالِتُ۔ الْمَثَلُتُ وَالْمَثَلُتُ: بادشاہ کے پاس چغمل خوری کرنے والا۔ الْمَثَلُتُ: مِنَ الْأَخْرُوفِ: تین نقطوں والا یا تین حرکتوں والا۔ وَالْمَثَلُتُ فِي الْهُندَسِيَّةِ: تین ضلعوں والی شکل۔ الْمَثَلُوتُ: تین سے مرکب۔ وہ چیز جس کی تہائی لے لی گئی ہو..... مِنَ الْجِبَالِ: تین لٹوں کی مٹی ہوئی رسی۔ كَيْسَاءُ مَثَلُوتُ: اُون ہال اور اُونوں کے ہال کا بنا ہوا کھیل۔ الْمَثَلُوتَةُ: تین چیزے کا بنا ہوا تو خدا دن۔ تَلَجَّتْ (ن) تَلَجًا وَتَلَجَّتْ السَّمَاءُ: برف گرا نا۔ تم کہتے ہو قَلَجْنَا السَّمَاءَ یعنی ہمارے اوپر برف پڑی۔ تَلَجَّتْ (ن) تَلُوجًا. نَفْسِي بِهِ وَالْبَيْهُ: خوش ہونا مطمئن ہونا۔ تَلَجَّتْ (س) تَلَجًا وَتَلَجَّتْ: نفسی بہ۔ مطمئن ہونا۔ خوش ہونا۔ تَلَجٌ: قُرَاذِهِ: بلیدا الطبع ہونا۔ صفت (مَطْلُوجٌ) السُّوَادُ: تَلَجَّتْ الْأَرْضُ وَتَلَجَّتْ: برف پڑنا۔ أَتَلَجَّهُ: خوش کرنا۔ أَتَلَجَّ الْقَوْمُ: برف میں داخل ہونا۔ أَتَلَجَّتْ عَنْهُ الْخُمِيُّ: زائل ہونا۔ أَتَلَجَّ مَاءُ الْبِنْرِ: ختم ہونا۔ الْفَلَجُ: برف۔ ج فَالُوجٌ: واحد و تَلَجَّةٌ: مَاءٌ قَلَجٌ: ٹھنڈا پانی۔ الطَّلَجُ: عقاب کا چوزہ۔ الْفَلَاجُ: برف پیچنے والا۔ الْفَلَاجِيُّ: بہت سفید۔ کہا جاتا ہے "فَصُلَّ تَلَاجِيٌّ" الْمَثَلَجَةُ: برف کی حالت کی جگہ۔ الْمَثَلُوجُ: برف پڑی ہوئی چیز۔ رَجُلٌ
---	--	---

مَلُوجُ الفُؤَادِ: بليداطبخ مردہ ماء
مَلُوجُ: برف سے ٹھنڈا کیا ہوا پانی۔

تَلَطَّ (ض) تَلَطَّبًا. الشُّورُ أَوْ البَعِيرُ: پتلا
پانچخانہ کرنا۔

تَلَعَّ (ف) تَلَعًا. رَأَسُهُ: پچلنا۔ توڑنا۔

تَلَعَّ (ف) تَلَعًا. رَأَسُهُ: پچلنا۔ توڑنا۔

المُتَلَعُّ: مِنَ التَّمْرِ: پھٹ کر زمین پر گری
ہوئی کھجور۔ تم کہتے ہو "تَنَالَسَرَتِ البَصَارُ
فَتَلَعَتْ" پھل کھر گئے اور پھٹ گئے۔

تَلَمَّ (ض) تَلَمًّا وَتَلَمَّ. الحَائِطُ: رخزہ ال
وینا..... الاناء: کنارے سے توڑنا۔

تَلَمَّ (س) تَلَمًّا وَتَلَمَّ وَانْتَلَمَّ: رخزہ پڑنا۔

تَلَمَّ تَلَمَّةً فِي مَالِهِ: کچھ ضائع ہونا۔

القَلَمُ مِنَ التَّلَامِ وَ (التَّلَمَّةُ) فِي الحَائِطِ وَ
نَحْوِهِ: شکاف۔ رخزہ۔ خلل۔ ٹوٹی ہوئی
جگہ۔

الْأَتْلَمُ: ہر وہ چیز جس کا رخزہ ظاہر ہو۔ مٹی
پتھر۔

تَمَّ (ن) تَمًّا. الشَّيْءُ: درست کرنا۔ تم کہتے
ہو "تَمَّمْتُ أُمُورِي" میں نے اپنے امور کو
درست کر لیا۔ تَمَّتِ الشَّلَّةُ النَّبْتُ
بِفَجْهِهَا: بکری نے گھاس کو اپنے منہ سے
صاف کر لیا۔

إِتْمَمَ: الْجِسْمُ: گھلنا۔ کمزور ہونا.....
الشيخُ: بوڑھا ہونا۔ صفت (تَمَّمَ)

تَمَّ وَتَمَّةً: وہاں۔ اسم ہے جس سے بعد کی
طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

التَّمُّ: تم کا مصدر بمعنی درست کرنا اور اسی
سے ہے "كُنَّا أَهْلَ تَمِّهِ وَرَمِيهِ" ہم اصلاح و
مرمت کے اہل تھے اور کہا جاتا ہے "هو تَمُّهُ
وَرَمُّهُ أَوْ تَمُّهُ وَرَمُّهُ أَوْ تَمُّهُ وَرَمُّهُ" وہ اس کا
جید و ردی قلیل و کثیر ہے اور کہا جاتا ہے "ماله
تَمٌّ وَلَارَمٌ" یعنی وہ کسی چیز کا مالک نہیں۔

تَمَّ: حرف عطف ہے۔ ترتیب اور ترتیجی کے
لئے مستعمل ہے اور اس پر تاج بھی آتا ہے کہا
جاتا ہے تَمَّتْ۔

التَّمَّةُ: سوکھی گھاس کا مٹھا۔

التَّمَامُ: ایک قسم کی گھاس جو لائی نہیں ہوتی
واحد تَمَامَةٌ۔

الجِسْمُ: مِنَ النَّاسِ: اچھا برا ہر قسم کا کھانا
کھانے والا۔

تَمَّاهُ (ف) تَمًّا: چربی کھلانا.....

الرَّأْسُ: پچلنا توڑنا..... الانف: کنارہ توڑ
دینے سے خون بہنا۔

انْتَمَّ: الرَّأْسُ: پچلا جانا۔ ٹوٹنا۔

التَّمُوتُ: وہ شخص جو جماع کے وقت پانچخانہ
کردے۔

تَمَّجَهُ (ض) تَمَّجًا: باہم ملانا۔

المُتَمَّجُ: مختلف رنگوں سے رنگنے والا۔
مَوْنَسٌ وَشَمَّجَةٌ۔

تَمَّدَ (ن ض) تَمَّادًا وَاتَّمَدًا وَاسْتَمَّدَ.
التَّمَّاءُ: پانی جمع ہونے کے لئے حوض کی مانند
بنانا۔ تَمَّدَ الشَّيْءُ فَهَلَا: کسی کے پاس کسی چیز
کا اس طرح ہونا کہ اس کا سامان مال ضائع ہو
جائے۔

..... السَّفَاقَةُ بِالحَلَبِ: دوپٹے میں اونٹنی کا
دودھ کو سٹک لینا۔

إِتَّمَدَ وَاتَّمَدَ وَاتَّمَدَ: تھوڑے پانی کی طرف
جانا۔

إِسْتَمَّدَهُ: بخشش طلب کرنا۔

التَّمُّدُ وَالتَّمُّدُ: تھوڑا پانی جو جاڑوں میں جمع
رہے اور گرمیوں میں خشک ہو جائے گڑھا
جس میں بارش کا پانی جمع ہو۔ ج تَمَّادُ۔

الْإِتَّمَدُ وَالْأِتَّمَدُ: ایک قسم کا پتھر جس سے
سرمہ تیار کیا جاتا ہے اور جس کو علماء کیمیا
انتیمون کہتے ہیں۔

رَجُلٌ (مُتَمَّودٌ) وَهُوَ فَضْضٌ جَسُّ كَوَسَالِيْنِ كِي
كثرت مفلس بنائے۔

تَمَّرَ (ن) تَمَّورًا وَاتَّمَرَ. الشَّجَرُ: پھلدار
ہونا۔ صفت (تَامِرٌ وَتَمَّيرٌ). التَّمَرُ الشَّجَرُ
التَّمَرُ: پھل لانا۔ التَّمَرُ القَوْمُ: پھل کھلانا۔

تَمَّرَ: مَالُهُ: بڑھانا۔ زیادہ کرنا۔

إِسْتَمَّرَ: الشَّيْءُ: نتیجہ خیز بنانا.....
الرَّجُلُ: پھل پانا۔

التَّمَرُ: پھل واحد تَمْرَةٌ ج تَمَارٌ ج تَمَارٌ
وَتَمَّرٌ. التَّمْرَةُ: نسل۔ اولاد۔ ثَمْرَةٌ
الْبَيْتَانُ: زبان کا کنارہ..... السَّوْطُ: چابک

کے سرے کی گرہ اور اسی سے ہے
"أَمَرَ الْجَلْدَانُ يَذُقُ ثَمْرَةَ سَوْطِهِ" اس
نے جلا دو کہ حکم دیا کہ کوڑے کے سرے کی گرہ کو
پھل لے۔ ثَمْرَةُ القَلْبِ: دوستی۔ محبت اور
اسی سے ہے "خَصَّصْنِي بِثَمْرَةِ قَلْبِهِ" اس
نے مجھ کو اپنی دوستی کے لئے خاص کیا۔
الغَامِرُ: لوبیا۔

شَجَرَةُ (تَمَّرَاءُ) پھل دار درخت۔ أَرْضُ
تَمَّرَاءُ: بہت پھیلوں والی زمین۔

تَمَّسَّ (س) تَمَّسًّا: مست ہونا۔ صفت
(تَمَّسَّ)

تَمَّسَّ (ن ض) تَمَّسًّا: فریادیں کرنا۔ کھلانا
پلانا۔ تَمَّ خَوَارِي كَرْنَا۔

اتَّمَّسَّ: مدہوش کرنا۔ اتَّمَّسَّ اللَّيْنُ: بہت
جھاگ والا ہونا۔

..... وَتَمَّسَّ اللَّيْنُ: جھاگ اٹھنے کے لئے
اچھلانا۔

تَقَمَّلَ: مَا فِي الانَاءِ: پینا۔

التَّمَّلَةُ ج تَمُّولٌ وَ (التَّمَّلَةُ) ج تَمُّلٌ
(التَّمِّيْلَةُ) ج تَمِّيْلٌ وَتَمَائِلٌ وَ (التَّمَّالَةُ) ج

تَمَّالٌ: حوض یا برتن میں باقی ماندہ پانی
وغیرہ۔ التَّمَّالَةُ: جھاگ۔

التَّمَّالُ وَالتَّمَّالُ: زہر قاتل۔

تَمَّالٌ. القَوْمُ: قوم کا فریادیں۔

التَّمِّيْلُ: کھانا دودھ۔

التَّمَّيْلَةُ: حوض۔ تالاب۔

التَّمَّيْلَةُ: حوض کی تلی کی کچھ۔ چرواہے کا
تھیلا۔ جس کو وہ اپنے کندھے پر رکھتا ہے۔

تَمَّنَّ (ن ض) تَمَّنًّا. الرَّجُلُ: کسی شخص کے
مال کا آٹھواں حصہ لینا..... الشَّيْءُ: آٹھواں
حصہ لینا..... القَوْمُ: آٹھواں ہونا۔

تَمَّنَّ (ك) تَمَّنًّا. الشَّيْءُ: قیمتی ہونا۔
تَمَّنَّ. الشَّيْءُ: قیمت کا اندازہ کرنا۔ آٹھ
ضلعوں والی بنانا۔

أَثْمَنُ القَوْمِ: آٹھ ہونا۔ اَثْمَنُ المَالِ زَيْدٌ اولیٰ زید: قیمت دینا۔

الْثَمَنُ: بیع شدہ چیز کا بدلہ۔ قیمتِ ثَمَانِ وَاثْمِنُ وَالثَّمَنُ

الْثَمَنُ وَالثَّمَنُ: آٹھواں حصہ۔ ثَمَانِ اَثْمَانِ اسی معنی میں ثَمِينٌ ہے اور الثَّمِينُ قیمتی۔

اَتَوَا ثَمَانَ وَثَمَنٌ وہ لوگ آٹھ آٹھ آئے (غیر مصرف ہے)

الثَّمَانِيَّةُ: آٹھ۔ مَوْتٌ ثَمَانٍ اور تم کہو گے "ثَمَانِيَّةٌ عَشْرٌ رَجُلًا وَثَمَانِي عَشْرَةٌ امْرَأَةً"

الثَّمَانِ: آٹھواں۔

الثَّمَانُونَ: اسی (۸۰)

المُثْمَنُ: وہ چیز جس کی قیمت کا اندازہ کیا گیا ہو۔ بشت پیل۔ آٹھ نعلوں والی چیز۔

الثَّمَنَةُ: گھوڑے کے پاؤں کے چھپکے حصہ کے بال جِثْنِ

الثَّمَدِيَّةُ وَالثَّمَدُ: مرد کا وہ حصہ جو عورت کے پستان کا ہے۔ جِثْنَادُ

الثَّمَبُ: پتھر بنانے والوں کی چھری۔

ثَمِي (ض) ثَمِيًّا: الثَّمِي: موڑنا۔ لپیٹنا۔ بعض کو بعض پر تہہ کر دینا۔ روکنا۔

زَيْدًا: حاجت سے باز رکھنا۔ دوسرا ہونا۔ تم کہتے ہو "هَذَا وَاحِدٌ فَائْتِدْ" یہ ایک ہے تم

دوسرے بن جاؤ کہا جاتا ہے "ثَمِي عَلَيْهِ بِضْرِيَّةٌ ثَانِيَّةٌ" اس نے اس کو دوبارہ مارا۔

"وَفَلَانٌ لَا يَنْسِي وَلَا يَنْسَى" یعنی فلاں جلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ "وَفَسِي صَدْرُهُ" یعنی اس نے اپنے دل میں دشمنی کو پوشیدہ کیا۔

ثَمِي الثَّمِي تَمِيَّةً: دوہرا کرنا۔

بِالْأَمْرِ: ایک کام کے ساتھ دوسرا کام ملا دینا۔ الكَلِمَةُ: تثنیہ کی علامت لگانا۔ ایک حرف پر دو نقطے لگانا۔

الثَّمِي: الرَّجُلُ: دوسرا ہونا۔ عَلَيْهِ: تعریف کرنا۔ عَلَيْهِ بِالضَّرْبِ: دوبارہ مارنا۔

تَفَانُوا عَلَيْهِ: مہربانیاں ظاہر کرنا۔

اِسْتَمِي: الثَّمِي: علم عام سابق سے نکالنا۔ فُلَانًا وَعَلَى فُلَانٍ: کسی کو غیر کے علم سے خارج کرنا۔

اِسْتَمِي: صدرُهُ عَلَى الْبِقْضَاءِ: بغض و عداوت پر مشتمل رہنا۔

الْفَيْسِيُّ: مِنَ الثَّوْبِ: بیچ۔ لیٹ۔ تم کہتے ہو "أَرْسَلْتُهُ يَمِي كَتَابِي" میں نے اس کو اپنے

خط میں ملفوف کر کے بھیجا۔ مِنَ الْوَادِي: موڑنا۔ مِنَ اللَّيْلِ: وقت۔ مِنَ الْحَيَّةِ: کذلی جِ اَفْنَاءِ. اَثْنَاءُ

الْكَلَامِ: دوران گفتگو۔ تم کہتے ہو "جَاوَا فِي اَفْنَاءِ الْأَمْرِ" یعنی وہ لوگ کام کے درمیان

میں آئے۔

الثَّمِي: دہرائی ہوئی بات۔ جِ ثَمِيَّةٌ (..... وَالثَّمَانِ) سردار سے دوسرے درجہ کا آدمی۔

الثَّمَاءُ: تعریف۔ جِ اَثْمِيَّةٌ

الثَّمَاءُ: اونٹ کے زانو باندھنے کی دہری رسی۔

اَتَوَا (ثَمَاءً وَثَمِيًّا) وہ لوگ دو دو آئے (غیر مصرف ہے اور مذکر و مؤنث کے لئے یکساں ہے)۔

الثَّمِي: بِنِ ثَمَاءٍ وَثَمِيَانٍ: وہ جانور جس کے سامنے کے دانت گر گئے ہوں۔

الثَّمِيَّةُ: سامنے کے اوپر کے بیچے کے دو دو دانت۔ جِ ثَمِيَا اسْتَمَاءُ: کہا جاتا ہے

"حَلَفَ يَمِيْنَا لَيْسَ فِيهَا ثَمِيَّةٌ" اس نے بغیر استثناء کے قسم کھائی۔ گھائی کا راستہ۔ کہا جاتا ہے

"فَلَانٌ طَلَّحَ الثَّمِيَا" یعنی فلاں مشقتوں کا برداشت کرنے والا ہے۔

تَمِيَّةُ الْأَشْيَاعِ: موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں سے پانچویں کتاب۔

الثَّمَانِي: مِنَ الْأَلْفَاظِ: دو حرفوں والا۔ اَثْمَانٌ: مَوْتٌ ثَمَانٍ وَثَمَانَانٌ: دو۔

الْاِثْمَانُ وَايَوْمَ الْاِثْمَانِ: بیکر کا دن۔ سوموار۔ الثَّمَانِي: مَوْتٌ ثَانِيَّةٌ: دوسرا۔

الثَّمَانِيَّةُ: سیکنڈ۔ جِ الثَّمَانِي

الثَّمَوِيُّ وَالثَّمِيَا: مِنَ الْجَزُورِ: ذبح کئے ہوئے جانور کا سر و پاؤں مشتمل کیا ہوا۔

الثَّمِي: بِرِبْطِ بَاجِعٍ كَيْسَلَةَ تَارِكٍ بَعْدَ الْاِتَارِ

"مَعْنَى الْوَادِي" وادی کا موڑ۔ جِ الثَّمَانِي: الثَّمَانِي: قرآن کی آیتیں۔ مَعْنَايُ

الثَّمِي: کسی چیز کی لڑی وغیرہ۔ وَالثَّمَانِي مِنَ الدَّابَّةِ: زانو اور کہنیاں۔

الثَّمَانِيَّةُ: اُون اور بال وغیرہ کی رسی۔ کچی لیٹ جِ مَعْنَايَةً

ثَابٌ (ن) ثَوْبًا وَثَوْبًا: لوٹنا۔ الثَّمَانِي: النَّاسُ: اکٹھا ہونا۔ الثَّمَانِي: حَوْضٌ مِيْنِ جَمْعٍ هُوَا: (ثَوْبَانًا وَالثَّوْبُ اِثْوَابًا)

الثَّمَانِي: چنگا ہونا۔

ثَوْبَةً: مِنَ كَذَا: بدلہ دینا۔ الرَّجُلُ: جانے کے بعد واپس ہونا۔ (..... وَتَقْوَابٌ) المَصْلِي: فرض کے بعد نفل نماز پڑھنا۔

اَقْصَابُ اِثْمَانَةٍ الرَّجُلُ: چنگا ہونا۔ الرَّجُلُ: بدلہ دینا۔ ہ۔ جزاء ہ۔ دینا۔

..... الحَوْضُ: بھرتا۔

تَقْوَابٌ: ثَوَابٌ حَاصِلٌ كَرَامًا۔ اِسْتَبَابُ المَالِ: لوٹانا۔ الرَّجُلُ: بدلہ مانگنا۔

الثَّمَانِي: فَارِشٌ سَبِيلَةٍ تَمِيَزُ هُوَا: مِنَ الثَّمَانِي: سمندر کا بڑھتا ہوا پانی بھانا کے بعد۔

الثَّمَانِي: كِبْرُجٌ ثِيَابٌ وَالثَّوَابُ اِثْوَابٌ كَمَا جَاءَتْ بِهٖ "طَاهِرًا وَذَنْسُ الثِّيَابِ" پاك نفس یا خبیث النفس۔

الثَّمَانِي: الثَّمَانِيَّةُ وَالثَّمَانِيَّةُ: اَعْمَالٌ كَابِدَلَةٍ خَيْرٌ هُوَا ثَرَمًا خَيْرٌ كَلِمَةٍ مَسْتَمَلٌ هُوَا۔

الثَّمَانِي: شَهْدٌ شَهْدِيٌّ كَمَا هُوَا۔ الثَّمَانِي: بَرَازٌ۔ كِبْرُجٌ كَا سَوَادُ الْكِبْرُجِ

وَالثَّمَانِي: الثَّمَانِي: كِبْرُجٌ كَا مَحْفَظٌ۔

الثَّمَانِي: اِسْتَبَابٌ وَالثَّمَانِيَّةُ: جَمْعٌ هُوَا كِي جَدِّهِ "مَعْنَابُ الثَّمَانِيَّةِ وَالثَّمَانِيَّةُ" کونوں کے ارد گرد کے اونچے پتھر۔

الثَّمَانِي: مَعْنَى جَوَانِ اِثْمَانِي كِي تُوَكْرِي۔

ثَاخَتْ (ن ض) ثَوْخًا وَثِيخًا. الْإِضْبَعُ فِي الثَّوْرِ وَالرَّجُلِ فِي الْوَحْلِ: الْكَلْبُ كَأَوْرَمٍ مِثْلَ بَايِرٍ كَالْبَيْزِ فِي دَحْنِهَا.	ثَوَّلْتُ (س) ثَوَّلًا وَثَلَّتْ (ن) ثَوَّلًا. الشَّاةُ خَاصَّةً: دِيَوَانِي هُوَ نَا..... الرَّجُلُ: بَعْدُ وَقُوفٌ هُوَ نَا. صَفَتْ (أَقُولُ) مَوْتٌ ثَوَّلًا: بَعْدُ ثَوَّلُ: حَجُّ الْأَوْلَادِ.	ثَاوَتْ (ن) ثَوْرًا وَثَوْرًا نَا وَثَوْرًا: جَوْشٌ مِثْلُ آتَا. بَهْرُ كِنَا أَوْ رَاسِي سَعْبٌ "ثَاوَتْ الْفَيْتَةُ بَيْنَهُمْ" اِنْ كَرَمِيَانِ قَتَرُوْهُمَا وَبَهْرُ كِنَا اِشْمَا.	ثَوَّلُ: حَجُّ الْأَوْلَادِ. الْبَلَدُ هُوَ نَا.....
الْفَاوَةُ وَالْفَايَةُ: أَدْوَانُ كَابَاثَرَه.	تَثَوَّلُ: اِنْخَلُّ: اِكْتَمَا هُوَ نَا..... عَلَيْهِ الْقَوْمُ: بَرَا اِبْهَلَا كَبْنِي أَوْ رَمَارَنِي پِيشِي لَكِنَا.	الْفَيْتَةُ: اِنْخَلُّ: اِكْتَمَا هُوَ نَا.....	الْجَزَاءُ: ثَدْيُ يَوْمٍ كَا خَا هَر هُوَ نَا.....
الْفَيْتَةُ: مَوْتٌ ثَوِيَّةٌ. الثَّوِيَّةُ: بَحِيْرٌ كَبْرِي كَا بَعْدُ اَوْتُ كَابَاثَرَه. عَمْرُوتُ: كَبَا جَا تَا بَعْدُ "هَلْ هَذِهِ ثَوِيَّةُ فُلَانٍ" يَهْلَا سِ كِي بِيُوِي هُوَ.	اِنْخَالُ اِنْخَالًا: عَلَيْهِ الْعَرَابُ: كَرْنَا. كَبَا جَا تَا بَعْدُ "اِنْخَالُ عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ كَحَلِّ وَجْهِ" اُوْكَ اسِ پَر هَر طَرَحِ سَعْلُوثِ پَرَنِي..... عَلَيْهِ الْقَوْلُ: زَبَانُ پَر ثَوْدُ نَحْوُ آ جَا نَا.	الْفَيْتَةُ: اِنْخَلُّ: اِكْتَمَا هُوَ نَا.....	نَفْسُهُ: حَجِي كَا اِسْتَلَا نَا..... اِلَيْهِ وَبِه: حَمَلُهُ كَرْنَا. كُو پَرْنَا.
الْمَفْثُوِي: مَنَزَلٌ. حَجُّ مَفْثَاوِي. اِبُو الْمَفْثُوِي: مِهْمَانُ. اِبُو مَفْثَوَاهُ: مِيْزِيَانُ. اُمُّ مَفْثَوَاهُ: مِيْزِيَانُ كِي بِيُوِي.	الْفَيْتَةُ: قَبِيْلَةُ كَعْبِ جَمْعُ هُوَنِي كِي جَلْدُ. مَتَفَرَّقُ: كَحْرُوِي كَعْلُوْكَوِي كَا حَمَلُ نَا.....	ثَاوْرَةٌ مَفَاوِرَةٌ وَثَوْرًا: اِيْكَ دُوسَرِي پَر حَمَلُهُ كَرْنَا.	ثَاوْرَةٌ وَثَاوْرَةٌ وَاسْتَاوْرَةٌ: جَوْشٌ وَلا نَا. ثَوْرُ الْأَحْمَرِ: كَبُوْدُ كَرِيْدُ كَرْنَا. ثَوْرُ الْكِنَابِ: مَعَالِي مِيْنُ بَحْثُ كَرْنَا.
تَفْثِيْتُ وَتَفْثِيْتُ. الْمَسْرَاةُ زَوْجِيَا: مَوْتٌ يَا طَلَاقُ كِي وَجْهِي سُوْهُرِي سَعْدَا هُوَ نَا. صَفَتْ (ثَيْبٌ) وَالثَّيْبُ: بَا كَرَهِي كِي ضَدُّ شَادِي شَدِه مَرْدِيَا عَمْرُوتُ. (مَذْكُورٌ مَوْتٌ) دُونُوِي كَعْلِي لَكِي كِي سَا لِي هُوَ. تَمُ كَبْتِي هُوَ "رَجُلٌ ثَيْبٌ" شَادِي شَدِه مَرْدٌ "اِمْرَاةٌ ثَيْبٌ" مَشُوْهُرِي سَعْدَا شَدِه عَمْرُوتُ. طَلَاقُ يَا فِتْ: ثَيْبٌ: جُو عَمْرُوتُوِي كَعْلِي لَكِي هُوَ اسِ كِي مَعْلِيَا تَا هُوَ اُوْرُ كَبَا جَا تَا بَعْدُ "بِيْسَرُ ثَيْبٌ" كِنُوَا سِ مِيْنُ پَانِي جَمْعُ هُوَ.	الثَّوْمَةُ: اِيْكَ لَبْنُ. تَلُوَارُ كَعْدُ سَعْلِي كِنَارِي كِي آ رَا نَشِي. تَمُ كَبْتِي هُوَ "سَيْفِي ثَوْمَتُهُ مِنْ قِطْعَةٍ" مِيْرِي تَلُوَارُ كَعْدُ سَعْلِي كِنَارِي جَانَدِي كَا بَعْدُ.	ثَوْرَانُ: الشَّفَقُ وَثَوْرَةٌ: شَفَقُ كِي مَرْتِي.	تَفْثُوْرٌ: جَوْشٌ مِيْنُ آ تَا.
الْمَقْتَبُ: خَاوِنْدُ سَعْدَا شَدِه عَمْرُوتُ.	تَفْثَاوْنُ: كَبُوْدُ فَرِيْبُ كَرْنَا.	الْفُورُ: تَيْلٌ. آ سَا نُ كَعْلِي اِيْكَ بَرَجُ كَا نَا مَرَجُ ثِيْرَانُ. وَاسْتَاوْرٌ وَثِيْرَانُ وَثَوْرَةٌ.	ثَوْرٌ: اِيْكَ بَرَجُ كَا نَا مَرَجُ ثِيْرَانُ. وَاسْتَاوْرٌ وَثِيْرَانُ وَثَوْرَةٌ.
الْفَيْسَلُ: پِيْهَارِي كَبْرِي. نَا مَرْدُ عَمْرُوتُوِي كَعْلِي پَا سِ مِيْشِي نِي دَا لَا.	الْفُورِيْسِي: آ لِي مِيْنُ لَكَانِي كِي خَشَلِي. پَلِيْتَحْنُ.	الْفُورُ: تَاخُنُ كِي جَزُ كِي سَفِيْدِي.	الْفُورُ: تَاخُنُ كِي جَزُ كِي سَفِيْدِي.
ثَيْسَلٌ وَتَفْثَيْسَلٌ. الرَّجُلُ: عَقْلٌ مَنَدِي كَعْلِي بَعْدُ بَعْدُ وَقُوفٌ بِيْنَا.	قَوِي: (ض) ثَوَاءٌ وَثَوِيَا. الْمَمْكَانُ وَفِيْهِ وَبِه: اِقَامَتُ كَرْنَا..... الرَّجُلُ: مَرْنَا.	الْفُورَةُ: كَا بَعْدُ كَثْرَتُ. كَبَا جَا تَا هُوَ ثَوْرَةٌ رَجَالٌ أَوْ رِمَالٌ: "لُوْكَوِي كِي يَارِيْتُ كِي كَثْرَتُ. جَوْشٌ وَبِيْجَانُ. بَعَاوَتُ.	الْفُورَةُ: كَا بَعْدُ كَثْرَتُ. كَبَا جَا تَا هُوَ ثَوْرَةٌ رَجَالٌ أَوْ رِمَالٌ: "لُوْكَوِي كِي يَارِيْتُ كِي كَثْرَتُ. جَوْشٌ وَبِيْجَانُ. بَعَاوَتُ.
الْفَيْسَلُ وَالْفَيْسَلُ: اِيْكَ قَسْمُ كِي كَرَهِي دَارِنَا تَا تَا جُو زَمِيْنُ پَر پِيْهَلِي هُوَ.	قَوِي: دَنْ كَبَا جَا تَا.	الْفُورَةُ: نَا. كَبَا جَا تَا هُوَ "ثَاوْرٌ ثَاوِيْرَةٌ فَارُ فَاوِيْرَةٌ" لِيْعْنِي وَهِي غَضَبِيْنَا كُ هُوَ. "وَرَا يَشُهُ ثَاوِيْرَةُ السَّرَا سِ" مِيْنُ لَكِي اسِ كُو پَرَا كِنْدِه پَا لُ وَكَبَا.	الْفُورَةُ: نَا. كَبَا جَا تَا هُوَ "ثَاوْرٌ ثَاوِيْرَةٌ فَارُ فَاوِيْرَةٌ" لِيْعْنِي وَهِي غَضَبِيْنَا كُ هُوَ. "وَرَا يَشُهُ ثَاوِيْرَةُ السَّرَا سِ" مِيْنُ لَكِي اسِ كُو پَرَا كِنْدِه پَا لُ وَكَبَا.
الْفَيْسَلُ: مَوْتِي لَكَانِي كِي جَلْدُ مَوْتِي مِيْنُ سُوْرَا خِ كَرْنِي دَا لَا. مَوْتِي مِيْنُ سُوْرَا خِ كَرْنِي كَا آ لِي.	قَوِي: اِقَامَتُ كَرْنَا. اَثَوَاهُ: مِهْمَانِي كَرْنَا. اَثَوَاهُ فِي الْمَمْكَانِ: بَهْرُ اِنَا. قِيَامُ كَرْنَا.	الْفُورَةُ: شُوْرٌ. حَجُّ ثَوَانِيْرُ.	الْفُورَةُ: شُوْرٌ. حَجُّ ثَوَانِيْرُ.
الْبَيْتَةُ: كَبْرِيُوِي كَابَاثَرَه.	الثَّوَّةُ: كَحْرُ كَا سَا مَانُ رَا سَعْلِي كَعْلِي نَشَانُ كَعْلِي پَتْرُ. حَجُّ ثَوِي.	الْفُورَةُ: بَهْتُ بِيُوِي وَوَالِي زَمِيْنُ.	الْفُورَةُ: بَهْتُ بِيُوِي وَوَالِي زَمِيْنُ.



إجْتَبَ: جب پہننا..... الشَّيْءُ: کاشا۔
 الْجَبَابُ: گہرا کٹواں۔ کچا کٹواں۔ گڑخان
 الْجَبَابُ: جَبَابٌ وَجَبَابٌ وَجَبِيَّةٌ
 الْجَبِيَّةُ: جب۔ زرہ..... من السِّنَانِ: چمڑکا
 بالائى حصہ جس میں نیزہ پیوست ہو۔ آنکھ
 کے گرد کی ہڈی۔ ہڈی کی ہڈی کا زیریں
 حصہ جو سم سے متصل ہو۔ جَبَابٌ وَجَبَابٌ
 الْجَبَابُ وَالْجَبَابُ: قَطْطٌ
 بَعِيْرٌ (أَجْبَبٌ): کو بان کٹا ہوا اونٹ۔
 جَبَابٌ (ف) جَبَابٌ وَجَبَابٌ أَوْ جَبِيَّةٌ أَوْ جَبِيَّةٌ
 الْبَصْرُ: نگاہ کا کمزور ہونا..... السِّنْفُ: اچھٹ
 جانا..... الرَّجُلُ: خوف کی وجہ سے باز رہنا
 اور واپس آنا۔ صفت (جَبَابٌ وَجَبَابٌ): بمعنی
 بزدل جَبَابٌ عَلَيْهِ الْحَيَّةُ: دوراخ سے نکل
 کر گھبرا دینا۔ جَبَابٌ عَلَى الْقَوْمِ: اچانک
 نمودار ہونا۔
 جَبِيْبِي (س) جَبِيْبًا: چھپنا..... عَنهُ: باز رہنا اور
 ڈرنا۔
 أَجْبَابٌ الشَّيْءُ: چھپانا۔ أَجْبَابَاتُ
 الْأَرْضِ: سرخ سانپ کی چھتری والی ہونا۔
 أَجْبَابٌ عَلَى الْقَوْمِ: بلند جگہ سے اچانک نمودار
 ہونا۔
 الْجَبَبُ: سرخ رنگ کی سانپ کی چھتری ج
 أَجْبُوٌّ وَجَبَابَةٌ: گہرو۔ پہاڑ کا گڑھا جس میں
 بارش کا پانی جمع ہو۔ ٹیلہ۔
 أَرْضٌ (مَجْبَابَةٌ): بکثرت سرخ رنگ کی سانپ
 کی چھتری والی زمین۔
 جَبَابُ الرَّجُلِ: سفر کرنا۔ مونا ہونا۔

سے مضطرب ہونا..... إِلَيْهِ: متوجہ ہونا۔
 الْجَبَابُ: قلب۔ سینہ۔ کہا جاتا ہے "رَأَيْتُ
 الْجَبَابُ" یعنی بہادر۔ جَبَابٌ وَجَبَابٌ
 الْجَبَابَةُ: نفس۔
 جَبَابَةٌ (ف) جَبَابَةٌ وَجَبَابَةٌ: پچھاڑنا۔
 گھبراہٹ میں ڈالنا۔ جَبَابُ الشَّجَرَةِ: جز
 سے اکھیڑنا۔
 أِنْجَابَتْ الشَّجَرَةُ: بڑے سے اکھیڑنا۔
 جَبَلٌ (س) جَبَالًا: ٹٹلڑا ہونا۔
 جَبَالٌ (ف) جَبَالًا: الصَّوْفُ: اکٹھا کرنا۔
 الصَّوْفُ: اکٹھا ہونا۔
 جَبَالٌ وَجَبَابَةٌ: بیو (یادوں علم اور غیر
 منصرف ہیں)۔
 الْجَابُورُ: باجرہ۔
 جَبَابٌ (ف) جَبَابَةٌ وَجَبَابَةٌ
 الْفَرَسُ: سرخ سیاہی مائل ہونا۔ صفت
 (أَجْبَابٌ) مَوْتٌ جَبَابٌ
 جَبَابٌ (ف) جَبَابًا: الشَّيْءُ: روکنا۔ چھپانا
 السُّوْبُ: سینا..... عَلَيْهِ: دائتوں سے
 کاشا۔
 جَبَابَةٌ (ن) جَبَابًا: غالب ہونا (جَبَابًا)
 الْمُخَلَّةُ: گامھا دینا۔
 جَبَابٌ: الْفَرَسُ: زانو اور اڑی تک سفیدی کا
 پھیننا۔ صفت (مَجْبَابٌ): تیز چلنا۔
 جَبَابَةٌ جَبَابَةٌ وَجَبَابَةٌ: غالب آنا۔ فخر میں
 مقابلہ کرنا۔
 تَجَابَتِ الرَّجُلَانِ: ایک دوسرے کی بہن سے
 شادی کرنا۔

السَّيْجُمُ: بنیادی حروف میں پانچواں حرف
 ہے۔ (مذکورہ مَوْت) ایک قسم کا ریشمی کپڑا۔
 جَبَابٌ (ف) جَبَابًا: مال کمانا۔ گہروٹی بیچنا۔
 الْجَبَابُ: گہروٹی۔ سخت اور اجڈ آدمی۔ شیر
 مَن جَبَابٌ: کہا جاتا ہے "فَلَانٌ جَبَابٌ
 الصَّبْرُ": فلاں امور میں بڑا صابر ہے۔
 الْجَبَابُ: مونا گورخر
 جَبَابَةُ الْبَطْنِ: ناف۔
 جَبَابٌ (س) جَبَابًا: الرَّجُلُ: اٹھنے یا بوجھ
 اٹھانے میں سست ہونا۔
 جَبَابٌ جَبَابًا وَجَبَابًا: گھبرانا۔ صفت
 (مَجْبُورٌ)
 الْجَبَابَةُ: الْجَبَابُ: گھبرانا کرنا۔
 الْجَبَابُ: بد خو۔ سست رفتار۔
 جَبَابٌ (ف) جَبَابًا: بزدلی سے کھڑا ہونا۔
 جَبَابًا جَبَابًا: بِالْأَبْلِ: جی کہہ کر پانی
 پلانے کے لئے پلانا۔
 تَجَابَتُ: عَن كَذَا: رکنا۔ باز رہنا۔
 الْجَبَابُ: مِنَ الطَّائِرِ: پرند کا سینہ..... من
 السَّفِيْنَةِ: جہاز کا اگا حصہ۔ جَبَابٌ جَبَابًا
 جَبَابٌ (ف) جَبَابًا: وَجَبَابًا: السَّيْءُ: دعا
 کرنے میں آواز بلند کرنا۔ گڑگڑانا۔
 السُّوْبُ: ڈکارنا..... السَّبَابُ: بلند ہونا۔
 الْأَرْضُ: لمبی گھاس والی ہونا۔
 الْجَبَابُ: مِمَّنْ..... من النبت: لمبی اور دروازہ
 نباتات (.....) وَالْجَبَابُ وَالْجَبَابُ: مونا مرد۔
 من الغيث: بہت بارش۔
 جَبَابٌ (ف) جَبَابًا: قَلْبُهُ: غم یا گھبراہٹ

الجُبْحَبَةُ: چمڑے کا تھپا۔ ذُحُول۔ مَوْنِي
اَوْثِي نَجْبَابِج۔

ماء (جِنَابِج و جِنَابِج): بہت پانی۔

الجِنْبِت: بُت۔ جادو۔ جادو گرے برکت۔

جَبِيخ (ف) جَبِيخَا: تکبیر کرنا۔ جَبِيخ

الْقِدَاح و الْكِقَاب فِي الْقَمَار: پانسہ پھینکانا۔

الجَبِيخَانَةُ: مِيزِيْن (جدید) اس کے لئے

عربی لَفْظُ مَسْلُحَةٍ ہے بارود کا تو س۔

جَبْدَةُ (ض) جَبْدٌ او اَجْبِدَةُ: کھینچنا۔

جَبْدُ الْعَب: چھوٹا اور خشک ہونا۔

جَبَادٌ: مبنی علی الکسر: موت۔

جَبِر (ن) جَبِرٌ او جَبُورٌ او جَبَارَةٌ

و جَبْرُ الْعِظْم: ٹوٹی ہوئی ہڈی درست کرنا۔

جَبْرَتٌ جَبِرٌ او جَبُورٌ او جَبَارَةٌ: نقصان

شدہ واپس کرنا یا اس کا عوض دینا۔

جَبِر (ن) اَجْبُورٌ او جَبِرٌ او اَنْجَبِرٌ و تَجَبَّرٌ

و اَجْتَبَّرٌ: ٹوٹی ہوئی ہڈی درست ہونا۔

الْمَفْقِيْرُ: فقی بنا نا۔ جَبْرٌ علی الامر: مجبور

کرنا۔

اَجْبِرَةٌ علی الامر: مجبور کرنا۔ نَدْبٌ جَبْرِي

کی طرف منسوب کرنا۔

اَجْتَبَّرٌ و اسْتَجَبَّرٌ: فقر کے بعد مستغنی ہونا۔

تَجَبَّرٌ: تکبر کرنا۔ سُرْكُشٌ ہونا۔ مَغْت (جَبِيْر):

حالت کزشتہ کا واپس آنا۔ السَّبْثُ: چرے

جانے کے بعد پھرا کرنا۔ تَجَبَّرٌ

المريض: درست حالت والا ہونا۔

الجَبِيْر: جس کو لئے ہوئے کی درستی۔

غُرُورٌ: مجبوری۔ قَضَاءُ الْبِي کے وقوع کا کلی

طور پر مجبورانہ اعتقاد کرنا۔ السَّجِيْرَاءُ: بہادر

مرد۔

الْحَبَاْرَةُ: صنوبر کی اقسام میں سے بہت بڑا

درخت جس کی لمبائی بہت جلد کئی میٹروں

تک پہنچ جاتی ہے۔

السَّجَاْرَةُ: ٹوٹی ہوئی ہڈی درست کرنے کا

پیشہ (..... و السَّجِيْرَةُ): ٹوٹی ہوئی ہڈی کے

باندھنے کی ٹکڑی یا پٹی۔ جَبِيْسَانٌ

الجَبَالُ: بگگن و بازو بند۔

الجَبْرُوْتُ و السَّجْبْرُوْتُ
الجَبْرُوْتُ: قدرت۔ طاقت۔ عظمت۔

السَّجْبْرُ: علوم ریاضیہ میں سے ایک علم جو کہ

علامات اور حروف کی مدد سے حساب کا علوم

شناخت کرتا ہے۔

جَابِرٌ: فَا..... اَبُو جَابِرٍ: روٹی۔ اُمُّ

جَابِرٍ: بریر۔

السَّجْبَارُ: بے کار بے قیمت۔ کہا جاتا ہے

"ذَهَبٌ ذَمُّهُ جَبَارٌ" اس کا خون رازیگاں

گیا۔ یعنی اس کے خون کا بدلہ نہیں لیا گیا۔

"وَالسَّمْسَةُ خِلَافَةٌ وَ جَبَارٌ" میں اس سے

پاک ویری ہوں۔

جَبَارٌ: منگل کا دن۔

السَّجْبَارُ: اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے

ہے۔ قابض: تسلط والا۔ قابض و رور و سرکش۔

سَرْجٌ جَبْرٌ: کہا جاتا ہے "طَلَعُ

السَّجْبَارِ" برج جوز الطیوٰع ہوا۔ تَخَلُّفَةُ

جَبَارَةٌ: المبارک گھوڑا اور تخت جس پر ہاتھ نہ پہنچ

سکے۔

السَّجْبُوْرِيَّةُ و الْمَجْبُوْرَةُ: فرق اسلامیہ میں سے

ایک فرقہ جس کے ماننے والے انسان کے

مجبور محض ہونے کے قائل تھے۔

جَبْرٌ (ن) جَبْرٌ: کاٹنا۔

جَبْرٌ (ن) جَبْرٌ: الخَبْرُ: خشک ہونا۔

صَفْتٌ (جَبِيْر)

الجَبْرُ: بخیل۔

الجَبْرَةُ: بکڑا۔ کہا جاتا ہے "جَبْرٌ لَهُ مِنْ مَالِهِ

جَبْرَةٌ" یعنی اس نے اس کو اپنے مال کا ایک

حصہ دیا۔

الجَبِيْرُ: خشک روٹی۔

تَجَبَّرٌ: فی مشیتہ: ناز و تکبر سے چلنا۔

السَّجْبِسُ: بزدلی۔ کمینہ۔ کندھا طر۔ قاسق۔

گچ۔ ریچھ کا بچہ۔ جَبِيْسَانٌ۔

السَّجْبِيْسُ: ریچھ کا بچہ..... و السَّجْبُوْسُ و

الْاَجْبِيْسُ: کمینہ۔ ناکارہ۔

الْاَجْبِيْسُ: کمزور۔ بزدل۔

جَبِيْلَةُ: (ض ن) جَبِيْلَةُ اللّٰهُ: پیدا کرنا۔ کہا

جاتا ہے "جَبِيْلَةُ اللّٰهُ عَلِي الْكَرِيْمِ" اللہ نے

شرافت و کرم اس کی فطرت میں رکھ دی۔

جَبِيْلُ الصَّرَابِ: پانی ڈال کر گارہ بنانا۔

جَبِيْلَةٌ: مختلف ٹکڑے کرنا۔

اَجْبِيْلَةٌ: بخیل پانا۔

اَجْبِيْلٌ و تَجَبَّلٌ و جَابِلٌ: المسافر: پہاڑ کی

طرف جانا۔ پہاڑ میں داخل ہونا۔ پہاڑ میں

رہنا۔ کہا جاتا ہے "طَلَبْتُ حَاجَةَ

فَسَأَلْتُ جَبِيْلٌ" اس نے اپنے مقصد میں کوشش کی

اور محروم رہا۔

و تَجَبَّلُ مَاعْنَدَةٌ: اس نے اس کا سب کچھ

لے لیا۔

السَّجِيْلَةُ و الْجَبِيْلَةُ و الْجَبِيْلَةُ: چہرہ۔

جسم کا سامنے کا حصہ۔ فطرت۔ طبیعت۔

اصل۔ قوت۔ زمین کی تختی۔ کہا جاتا ہے

"فَلَانٌ ذُو جَبِيْلَةٍ" فلاں تخت طبیعت ہے

"و جَبِيْلَةُ عَلِي الْخَيْرِ" اس کی طبیعت میں

نیکی ہے۔

السَّجِيْلُ و الْجَبِيْلَةُ: لوگوں کی جماعت۔

الْجَبِيْلَةُ: کوبان۔

الْجَبِيْلُ: مکان کا صحن۔ بہت بڑا۔ کہا جاتا ہے

"حَيٌّ جَبِيْلٌ" بڑا قبیلہ۔

الْجَبِيْلُ: بڑا ایالہ۔

السَّجِيْلُ: پہاڑ۔ جَبَالٌ و اَجْبَالٌ

و اَجْبَلٌ اور کہا جاتا ہے "رَجُلٌ جَبِيْلٌ" یعنی

بخیل مرد۔ "وَهُوَ جَبِيْلٌ الْوَجْهَ: وہ بھدے

چہرہ والا ہے۔" و فُلَانٌ جَبِيْلٌ قَوْمَهُ" فلاں

اپنی قوم کا سردار و عالم ہے۔ اَبْنَةُ

الْجَبِيْلِ: سانپ۔ مصیبت۔ آواز باز گشت۔

الْجَبِيْلِيُّ: طبعی۔

الْجَبَالُ: بدن۔ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ حَظِيْرٌ

الْجَبَالِ" فلاں تو مند ہے۔

الْجَبِيْلُ و الْمَجْبِيْلُ: بد صورت۔ کہا جاتا ہے

"رَجُلٌ جَبِيْلٌ الْوَجْهَ" بد صورت مرد۔

"وَأَمْرَاةٌ مَجْبِيْلَةٌ" بد صورت عورت۔ سَيْفٌ

مَجْبِيْلٌ: موٹی دھار کی تلوار۔

السَّجِيْلَةُ: خشک سال۔ ہر چیز کی کثرت۔

اصل۔ المخبول: بڑے ڈیل ڈول والا۔ جبن (ن) جنبنا و جنبنا: بزدل ہونا۔ صفت (جبان) ج جنبنا مؤنث جبانة و جبان ج جبانات۔ جبن۔ اللبن: بھیر بنا نا۔ الرجل: بزدلی پر ا کسانا۔ (.....) واجبن واجبن الرجل: بزدلی کی طرف منسوب کرنا۔ بزدل پانا اور اسی سے ہے قاتلناکم فما جنبناکم ہم نے تم سے جنگ کی تو تم کو بزدل نہیں پایا۔ تجبن۔ اللبن: بھیر بنا نا یا بھیر کی طرح جم جانا الرجل: مونا ہونا۔ الجنین والجنین والجنین: بھیر۔ الجنينة: بھیر کا کھڑا۔ الجنین: پیشانی۔ پیشانی کا کنارہ۔ ج الجنین و جنبن واجبنة: بزدل (نہ کرو مؤنث) الجبان: بھیر بیچنے والا۔ یا بھیر والا۔ بہت بزدل۔ مؤنث جبانة (.....) والجبانة: ہموار زمین۔ قبرستان۔ صحرا جنابین۔ المنجبة: باعش بزدلی۔ بھیر بنا نے کی جگہ یا وہ جگہ جہاں بھیر بہت ہو۔ عوام کی زبان میں کبریٰ کے سچے کی اوچھو کہتے ہیں جو وہ وہ بھیر بنا دیا کرتا ہے۔ جبة (ف) جبھا۔ الرجل: پیشانی پر مارنا۔ اچانک آنا۔ حاجت سے باز رکھنا۔ جہہ بالمکروہ: برائی سے پیش آنا۔ الششاء القوم: اسباب ہر مایا کرنے سے پہلے سرا کا آنا۔ الرجل: بغیر ری ڈول وغیرہ کے پانی پر آنا۔ جبھا: سر گول کر دینا۔ إجنبة السماء، وغیرہ: پانی وغیرہ کو ناگوار سمجھنا۔ الجبہ: پیشانی کی چوڑائی اور خوبصورتی۔ الجبنة: پیشانی۔ ج جباه و جبہات۔ جبنة القوم: سردار قوم۔ جہہ من اللسان: لوگوں کی جماعت۔ ذلت۔ تم کہتے	ہو "القیث منه جبنة" مجھے اس سے ذلت حاصل ہوئی۔ الجبهة: گھوڑے۔ اس کے لئے واحد نہیں اور اسی سے ہے "اللسان فی الجبهة صدقة" یعنی گھوڑوں میں زکوٰۃ نہیں۔ الأجنبة: خوبصورت پیشانی والا۔ شیر۔ مؤنث جبہاء۔ جبا (ن) جبا و جنبوا و جبا و جبوة و جبا و جبا و جبا (ض) جبانة۔ الخراج: جمع کرنا۔ الماء فی الحوض: جمع کرنا۔ جسی قجیة: سجدہ کے وقت ہاتھوں کو گھٹنے یا زمین پر رکھنا۔ اجسی: زرعه: پکنے سے پہلے بیجا اور اسی سے ہے "من اجسی فقد ازیی" جس نے پکنے سے پہلے (کھنک کو) بیجا اس نے ربو کا معاملہ کیا۔ اجنبی: ہ۔ پسند کرنا۔ چن لینا۔ الجباء: ج اجباء و (الجبانية): ج جواب: اونٹوں کے پانی پینے کا خوش۔ الجبنا: بگوئیں کی من۔ المنجی: خراج۔ ٹیکس۔ جنتہ (ن) جنتا و اجنتہ: جز سے اُکھیرنا۔ الجبث والجبث: مردہ لڈی۔ یا شہد کی مردہ کھی۔ گھجور کا غلاف۔ شہد میں ملا ہوا شہد کی کھپوں کا پھر وغیرہ۔ الجبث: موم۔ الجبنة: جسم انسانی۔ لاش۔ ج جبث۔ الجبث: من النحل: گھجور کا پودہ۔ واحد (جیشہ) المنجبة والمنجبات: کھر پی گھاس کھودنے کا اوزار۔ إجفأل، الطیور: پر جھاڑنا۔ النبث: لہا اور بیچیدہ ہونا۔ جفلة (ض) جنلا: الربیع: اُڑا لے جانا۔ کھیر دینا۔ جفل (س) و جفل (ک) جفالة و جفولة۔ الشجر والشعر: گنجان والا ہونا۔ صفت	(جفل و جفیل) الجبلة: چپوئی۔ ج جفل۔ الجبلة: چنڈول۔ الجبلة: بکھرے ہوئے پتے۔ الجبلیق والجبالیق: لاث پادری۔ ج جبلة (جدید) جفم (ن ض) جفما و جفوما۔ اللیل: آدھی رات ہونا۔ الرجل او الطائر والحیوان: سید کو زمین سے لگانا۔ صفت (جائیم) ج جفم۔ الجفوم والجفام: کا بوس۔ رجل (جبنة و جبانة و جفم و جفوم): بہت بیٹھے والا یا بہت سونے والا۔ الجبنة: ٹیلہ۔ پشت۔ الجبنة: راکھ وغیرہ کا تودہ۔ الجبلمان: بدن۔ شخص۔ المنجفم: بیٹھے کی جگہ۔ ج منجفم۔ المنجفم: وہ پرندہ یا خرگوش جس کو باندھ کر تیر وغیرہ مارا جائے یہاں تک کہ مر جائے۔ جبا: (ن) جبا و جسی (ض) جبا و جبا: زانو پر بیٹھنا یا انگلیوں کے بل کھڑا ہونا۔ صفت (جبات) ج جبا۔ و جسی: مؤنث جائیة۔ جبا: ہ: گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھنا۔ اجبی: ہ: زانو کے بل بیٹھنا۔ جبا: ہ: زانو پر بیٹھنا۔ الجبنة والجبنة والجبنة: پتھروں کا ذیر۔ مٹی کا ذیر۔ قبر۔ ج جبا۔ و جسی: شعلہ۔ جبنة الرجل: بدن۔ جبحجیح: الشی: پورا جائزہ لے کر اقدام کرنا۔ عن الامر: بہت جانا۔ رک جانا۔ الجبحجیح والجبحجیح: فیاضی کی طرف سبقت کرنے والا سردار۔ ج جبحجیح و جبحجیح و جبحجیح۔ جبحه (ف) جبحه و جبحه: کفر کرنا۔
--	--	---

جھلانا..... حقفہ و جحفہ بحقہ: باوجود علم کے انکار کرنا۔ صفت (جاحد)۔	الجاحر: پیچھے رہ جانے والا جو قافلہ کو نہ پا سکے۔	جھلانا..... حقفہ و جحفہ بحقہ: باوجود علم کے انکار کرنا۔ صفت (جاحد)۔
جحد (س) جحدًا: الشئ: کم ہونا.....	الجواجر: وہ جانور جو اپنے ریوڑ سے پیچھے رہ جائیں۔	جحد (س) جحدًا: الشئ: کم ہونا.....
النبث: چھوٹا رہ جانا..... الارض: خشک ہونا..... الرجل: بے خبر ہونا۔ صفت (جحد و جحد و أجد) کہا جاتا ہے "عام جحد" کم بارش والا سال۔ "ارض جحدة" خشک زمین۔ (لام الجحد) عند النحاة: لام جو مانا فیہ اور کان کے بعد تاکید نفی کے لئے آئے جیسے "وما كان زبک ليهلك القوي" خدا کا یہ کام نہیں کہ بستیوں کو ہلاک کرے۔	السنجر: چھینے کی جگہ جائے پناہ۔ ج محاجر۔	النبث: چھوٹا رہ جانا..... الارض: خشک ہونا..... الرجل: بے خبر ہونا۔ صفت (جحد و جحد و أجد) کہا جاتا ہے "عام جحد" کم بارش والا سال۔ "ارض جحدة" خشک زمین۔ (لام الجحد) عند النحاة: لام جو مانا فیہ اور کان کے بعد تاکید نفی کے لئے آئے جیسے "وما كان زبک ليهلك القوي" خدا کا یہ کام نہیں کہ بستیوں کو ہلاک کرے۔
جحدہ: جحدہ زین۔ (لام الجحد) عند النحاة: لام جو مانا فیہ اور کان کے بعد تاکید نفی کے لئے آئے جیسے "وما كان زبک ليهلك القوي" خدا کا یہ کام نہیں کہ بستیوں کو ہلاک کرے۔	جحش و جحش (ف) جحشا و جحشا: الجلد: چھیلنا۔ کھر چنا۔	جحدہ: جحدہ زین۔ (لام الجحد) عند النحاة: لام جو مانا فیہ اور کان کے بعد تاکید نفی کے لئے آئے جیسے "وما كان زبک ليهلك القوي" خدا کا یہ کام نہیں کہ بستیوں کو ہلاک کرے۔
الجحدب: پست قدم۔	جحش و جحش: الجحش: گدھے کا بچہ۔ تشبہا: گھوڑے کے بچے کو بھی کہتے ہیں۔ ج جحاش و جحشان و جحشة۔	الجحدب: پست قدم۔
جحدرة: پچھاڑنا۔ لڑھکانا۔	الجحشة: گدھے کا مادہ بچہ۔ اون جو ہاتھ پر لپیٹ کر کاٹی جائے۔	جحدرة: پچھاڑنا۔ لڑھکانا۔
تجدد: الطائر: پر تول کر اڑنا۔	الجحوش: چھوٹا بچہ۔	تجدد: الطائر: پر تول کر اڑنا۔
الجحدز: پست قدم۔	السنحوش: وہ شخص جس کا آدھا بدن ماؤف ہو گیا ہو۔	الجحدز: پست قدم۔
جحدله: پچھاڑنا..... الانباء: بھرتا.....	جحظت (س) جحوظًا: عينه: ابھرے ڈھیلے والی ہونا۔ کہا جاتا ہے رجل (جحوظ) البعین: ابھری ہوئی آنکھ والا مرد۔	جحدله: پچھاڑنا..... الانباء: بھرتا.....
الجمال: جمع کرنا۔	جحظ: اليد: گھورتا۔ تیز نظر سے دیکھنا۔	الجمال: جمع کرنا۔
جخدم جخدمة: تیز دوڑنا۔	الجحظان: دونوں آنکھوں کے ڈھیلے۔	جخدم جخدمة: تیز دوڑنا۔
جحور (ف) جحورا و تجحور و انجحور: الضب او السبع: سوراخ میں داخل ہونا۔	جحفہ (ف) جحفًا: چھیلنا۔ بہالے جانا۔ برباد کر دینا..... ہر جحفہ: لات مارنا۔	جحور (ف) جحورا و تجحور و انجحور: الضب او السبع: سوراخ میں داخل ہونا۔
جحوت العين: اندر کو دھنس جانا۔ تم کہتے ہو جحور الخیر عنہا "خیر ہم تک نہ پہنچی۔"	جحف معہ ولہ علی غیرہ: ناکل ہونا..... له الطعام: کھانا نکلانا۔	جحوت العين: اندر کو دھنس جانا۔ تم کہتے ہو جحور الخیر عنہا "خیر ہم تک نہ پہنچی۔"
أجحور و جحور: السبع: سوراخ میں داخل ہونے پر مجبور کرنا۔ و انجحورت السماء: بارش نہ ہونا۔ اجحور القوم: قحط و سختی میں پڑنا..... ہ: تنجی و الناء..... ہ السی کذا: مجبور کرنا۔	جحف: الرجل: بتلائے ہیضہ ہونا۔	أجحور و جحور: السبع: سوراخ میں داخل ہونے پر مجبور کرنا۔ و انجحورت السماء: بارش نہ ہونا۔ اجحور القوم: قحط و سختی میں پڑنا..... ہ: تنجی و الناء..... ہ السی کذا: مجبور کرنا۔
اجتحور: سوراخ بنانا۔	أجحف: السیل: بہالے جانا..... الدهور بالناس: ہلاک کرنا۔ جڑ سے مٹانا..... فلان یغیدہ: طاقت سے زیادہ کام کی تکلیف دینا	اجتحور: سوراخ بنانا۔
تجحورت: العين: اندر کو دھنسا اور اسی سے عین (جحوراء) گڑھے میں دھنسی ہوئی آنکھ۔	اجحاف: کا استعمال بطور استعارہ کے نقص فاحش میں بھی ہوتا ہے۔	تجحورت: العين: اندر کو دھنسا اور اسی سے عین (جحوراء) گڑھے میں دھنسی ہوئی آنکھ۔
الجحور: گہرا گڑھا۔	جحافة: مزاحمت کرنا۔ جاحف عنہ: مدافعت کرنا۔	الجحور: گہرا گڑھا۔
الجحرة و الجحرة: خشک سال۔	تجحفوا: لائحی اور تلواریوں سے لڑنا۔	الجحرة و الجحرة: خشک سال۔
الجحور: سوراخ۔ بل۔ ج اجحار و جحرة و الجحرة۔		الجحور: سوراخ۔ بل۔ ج اجحار و جحرة و الجحرة۔

..... بالكرة: بلے سے باہم دو گیند چھیننا۔
 اجحفه: چھیننا۔ جڑ سے اکھیرنا۔ ہلاک کرنا
 ماء البشر: تمام پانی نکال دینا.....
 السيل الوادي: کھود کر بہالے جانا۔
 الجحفة والجحفة: حوض کے اطراف میں پانی کا بقیہ۔ السيل والموت (الجحاف): ہمہ گیر و تباہ کن۔
 الجحاف: ہیضہ کے اسہال۔
 المنجوف: بتلائے ہیضہ۔
 الجحاف: جنگ۔ لڑائی۔
 المنجفة: مصیبت۔
 جحفلة جحفلة: پچھاڑنا۔ پھینکنا۔ سرزنش کرنا۔
 تجحفوا: جمع ہونا۔
 الجحفل: بڑا لشکر۔ ج جحافل۔ رجل جحفل: بڑے مرتبہ کا مرد۔
 الجحفلة: کھردار جانور کا ہونٹ۔
 جحفلة (ف) جحفلا و جحفلة: پچھاڑنا۔
 الجحفل: جحافل و جحافل: گڑگڑ۔
 جحفل: موٹا کشادہ پیشانی والا مرد۔
 الجحال: زہر۔
 الجحیل: بڑی چٹان۔ پہاڑ۔ ہر بڑی چیز۔
 جحم (ف) جحما: النار: بھڑکانا.....
 العين: کھولنا..... ہ عن الامر: روکنا۔
 جحمت (س) جحما و جحما و جحوما و جحمت (ک) جحوما: النار: بھڑکانا۔
 جحمة: بعینہ: گھورتا۔ تیز نظر سے دیکھنا۔
 أجحم: عن الامر: رکانا۔ باز رہنا۔
 أجحمت النار: تیز بھڑکانا۔
 تجحمت: تنگ ہونا۔ جلنا.....
 الجحام: فابھڑکتی ہوئی پتنگاری۔ من الحرب سخت اور گھسان کی جنگ اور کہا جاتا ہے "نار جاحمة" تیز آگ۔ "عین جاحمة" آنھی کی اٹھی رہ جانے والی آنکھ۔

الجحیم: دوزخ۔ گڑھے میں تخت بھرتی ہوئی آگ۔ سخت گرم جگہ۔

جحمة النار: آگ کی بھڑک۔ جحیم الجحام: آنکھوں کی سوجن۔

الأجحیم: بہت سرخ آنکھوں والا۔ سوجی ہوئی آنکھوں والا۔ مؤنث جحماء: جحیم و جحیم و جحیمی۔

الجحام: بخیل۔

الجحمنہ: بہت بوڑھی عورت۔ بد صورت مونا خرگوش۔ ج جحاصر: تغیر جنس۔

الجحمنش والجحمنوش: بہت بوڑھی عورت۔

جحن (س) جحنا: الصبی: خوراک کی خرابی سے کمزور ہونا۔ صفت (جحن)

جحن (ف) جحنا و اجحن و جحن: فقیر یا بخل کی وجہ سے اہل و عیال پرنگی و النہ۔

الجحنة: بری خوراک دینا۔

الجحن: ادیر میں جوان ہونے والا۔ من النبات: کمزور اور چھوٹا پودہ۔

جحا (ن) جحوا: چلنا۔ بالمکان: اقامت کرنا۔

اجنحاه: بڑے اٹھیرنا۔ الجحوة: ایک قدم۔

جح (ض) جحنا: ہاتھ پیر چھوڑ کر لیٹنا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔

بر جلد: خاک اڑانا۔ ابو جحواة: نڈی۔

جحز (ف) جحزنا: البئر: کشار۔ کرنا۔ جحز (س) جحزنا: جوف البئر: کشادہ ہونا۔

اجحز و جحز: البئر: کشادہ کرنا۔ تجحز: الحوض: پانی کے خشک ہو جانے کے بعد مٹی کا پھٹ جانا۔

الجحز: بہت کھانے والا۔ بزدل۔ جحف (ن ش) و جحیف (س) جحفوا و

جحفیفًا: اپنی حد سے زیادہ فخر کرنا۔ صفت (جحفاف)

الجحفیف: مص۔ بھاری لشکر۔ بہت مغرور انسان کے پیٹ کی آواز۔ نفس و روح۔ تم کہتے ہو "وقع ذلک فی جحفیفی: میرے دل میں یہ واقع ہوا۔

جحفا (ن) جحفوا: الکوز: سرنگوں کرنا۔ اوندھا کرنا۔

جحفی و تححفی: الکوز: سرنگوں ہونا۔ اوندھا ہونا۔ الشیخ: خمیدہ کمر ہونا۔ جحفی اللیل: گزر جانا۔

جحف (ض) جحفا: فی اعین القوم: عالی مرتبہ ہونا۔

جحف (ض) جحفة: الثوب: نیا ہونا۔ (جحفنا) الشی: کانا (ض ن) جحفنا: کوشش کرنا۔ فی الامر: تحقیق کرنا۔ اہتمام کرنا۔ جلدی کرنا۔ یہ الامر: سخت ہونا۔

جحف (س) جحفنا: الشدی او الصرع: خشک ہونا۔ صفت (اجحف) اور ناقہ کی صفت (جحفاء) ہے اور کہا جاتا ہے "سنة جحفاء" قیل کا سال۔

جحف (س) جحفنا و جحفنا: نصیب والا ہونا۔ صفت (محفذود) کہا جاتا ہے "جحفذت یا فلان" تم خوش قسمت ہو۔

جحف و اجحف: الشی: نیا کرنا۔ اجحف فوفنا: نیا پہننا۔ اجحف الامر: اچھی طرح تحقیق کرنا۔

فی الامر: شہید کی اختیار کرنا۔ کوشش کرنا۔ اجحف الطریق: سخت و ہموار ہونا۔

الرجل: سخت و ہموار زمین پر چلنا۔ جحادة: مجاہدة: فی الامر: کسی سے تحقیق کرنا۔

استجحف: الشی: نیا ہونا۔ الشی: نیا کرنا یا نیا پانا۔ الثوب: نیا پہننا۔

تجحف: نیا ہونا۔ الجحف: مص۔ داوا۔ نانا۔ ج اجداد و جحدود و جحدوة: مؤنث جحفة ن جحفات: الجحف: نصیبہ۔ بزرگی عظمت۔

روزی۔ سہر کا کنارہ۔ کہا جاتا ہے "عشر جحفة او تعین جحفة" وہ نقصان میں رہا یا وہ بلاگ ہوا۔

الجحف: مص۔ کوشش۔ شجیدگی۔ جلدی۔ اچھی طرح ثابت شدہ۔ و "فلان عالم جحف عالم" فلان انتہائی درجہ کا عالم ہے۔ و "عظیم جحف" بہت ہی بڑا جحف: کا نصب مصدریت کی وجہ سے ہے۔

الجحف: حصہ کہا جاتا ہے "فلان ذو جحف فی کذا" فلاں اس بارے میں خوش نصیب ہے۔ بہت پانی والا کنواں۔ کم پانی والا کنواں۔ چٹیل میدان کے اطراف میں تھوڑا پانی۔ سمندر کا کنارہ۔ ہر چیز کا کنارہ (والجحفی): بڑے حصہ والا۔ بہت نصیب والا۔

الجحف: ہموار تخت زمین۔ اسی سے مثل سے "من سلك الجحف ابن العتار" جو ہموار تخت زمین پر چلتا ہے وہ لغزش سے محفوظ رہتا ہے۔ باریک ریت۔ ج اجداد۔

الجحف: دریا کا کنارہ۔ کتے کے گلے کا پٹکا۔ کپڑے کا کمرہ۔ و جحفة الثوب: کپڑے کا نیا ہونا۔

الجحف: علامت۔ طریقہ۔ کہا جاتا ہے "رکب جحفة الامر او جحفة من الامر" اس نے رائے قائم کی۔ ج اجداد۔

نفاقہ (جحفاء): خشک تھن والی اونٹنی۔ سنہ جحفاء: قیل کا سال۔

الجحف: کوشش کرنے والا۔ سرگرمی سے کام کرنے والا۔ شجیدگی سے کام کرنے والا۔

الجحافة: الجحافة: کاموث۔ سڑک کا درمیان۔ ج جحواة۔

الجحاد والجحاد: کھجور توڑنا۔ جحادة: النخل وغیرہ۔ کھجور وغیرہ کا کٹنا۔ ہوا درخت۔

الجحاد: الجحاد: ہوا دھا گیا آپس میں لٹکی ہوئی مٹی۔

الجحفید: نیا۔ ایک قسم کا پرانا سکہ۔ ج جحفذ۔

الجديد والمجدود: تمیہ ور۔ کتا ہوا۔
السجدیدان والاحدآن: دن رات تثنیہ ہی
مستعمل ہے۔ سرف دن یا رات کو جدید یا
اجد: نہیں کہتے۔

السجدد: منس... من الأكسبة: مختلف
دھاریوں والا۔

جذب (ان ش) جذبسا وجذب (ک)
جذبونة وتجذب المكان: بارش نہ ہونے
کی وجہ سے خشک ہونا۔ صفت (جذب
واجذب وجذب وجذب وجذب وجذب)
جذب فلانا: حیب لگانا۔

الجذب: المكان: بارش نہ ہونے سے خشک
ہونا۔ القوم: قحط زدہ ہونا۔
الارض خشک پانا۔ فلانا: مہمان داری نہ
پانا۔

جذبہ: کمزور کرنا۔
تجذب: حیب دار ہونا۔

السجذب: منس... خشک سالی۔ حیب کہا جاتا
ہے "مکان جذب" قحط زدہ مقام۔ مؤنث
جذبنة: تجذبون: کہا جاتا ہے "ارضون
جذبون وارضون جذب" قحط زدہ
زمینیں۔

الجذب والجدیب: قحط زدہ۔ أرض
(جذباء): قحط زدہ زمین۔

السجداب: من الاراضی: خیمہ زمین۔ تجذب
مجادب

الاجادب: وہ زمینیں جس میں پیداوار نہ ہو۔
مکان (مجدوب): قحط زدہ۔

الجدث: قبر۔ تجذث والجدث
الجدث: گھوڑے کے کھری کی آواز۔ گوشت
چبانے کی آواز۔

اجثث: قبر بنانا۔
الجدجد: سخت ہموار زمین۔ جھینگڑ۔ مٹی کی
مانند ایک سیاہ رنگ کا کثیر اجورات میں آواز
کرتا ہے۔ تجذذاجذ

جدح (ف) جدحا واجدح واجتدح۔
السونق: گھولنا۔ جدح السونق فی

السین ملانا۔ کہتے ہیں "جدح جوبون من
سویق غیرہ) (دوسرے کے ستوکو جوبون
نے گھولا) حلوانی کی دوکان اور دادا جی کی
فاتحہ کے طور پر ضرب المثل ہے۔

جدحه: ملانا۔

المجدح: ستود غیرہ گھولنے کا سامان۔ ایک
ستارہ کا نام۔

المجدح: سمندر کا کنارہ۔ تججدح
مجدیح: السماء: بخت۔ واحد۔

مجدح کہا جاتا ہے "أزسلب السماء
مجدیح الغیب" آسمان نے بارش کے
لئے بختوں کو آواز دہموز دیا۔

جدز (ن) جدز او جدز وجدز: بچک
تھنا۔ صفت (مجدز ومجدز)

جدزه (ن) جدزا: لائق و مناسب بنانا
الجدار: دیواروں سے گھیرنا۔

الرجل: دیوار کی اونٹ میں ہونا۔
جدز وجدز (ک ن) جدارة واجدز
النبت: کوئیل ٹھکانا۔

جدز (ک) جدارة: بکدا: لائق ہونا۔
صفت (جدیر) کہا جاتا ہے "هو جدیر بکدا
ولکذا" تجدیرون وجدزاء مؤنث

جدیرة: تجدیرات وجدایر۔
جدز واجندز: الحائط: دیوار بنانا اور
پلاستر کرنا۔

السجدر والسجدر: پھنسیاں۔ مار کا نشان۔
زخم کا نشان۔

السجدر: بالشیء وله: لائق۔ مناسب تج
جدزون۔

السجدر: تجذران (والجدار) تجذدر
وجدز: دیوار۔

السجدر والسجدر: ایک قسم کی ریگستانی
نباتات تجذور: واحد جدرة وجدرة)

السجدری والسجدری: بچک۔
السجدار: دھوکا (یعنی وہ چیز جو جانوروں
اور چیزوں کو بھگانے کے لئے کھیت میں
کھڑی کی جاتی ہے۔

المجدرة: لائق۔ کہا جاتا ہے "انه مجدرة
لان یفعل کذا" وہ ایسا کرنے کے لائق
ہے۔ (مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لئے
یکساں ہے) ارض فمجدرة: بہت چھپک
والی سر زمین۔

المجدور: بچک زدہ۔ کم گوشت والا اور کہا
جاتا ہے "انه مجدور ان یفعل کذا" وہ
ایسا کرنے کے لائق ہے۔

جدع (ف) جدعا: الانف و ما
شاکله: کاننا۔ کہا جاتا ہے "لا امر ما جدع
قصیر انفا" کسی خاص مصلحت سے قیصر نے
اپنی ناک کاٹی۔ جدع فلانا: قید کرنا۔ باز
رکھنا۔

الرجل عیالہ: نان نفقہ روک لینا۔
(جدع وجدع واجدع) الولد: بڑی
خوراک دینا۔

جدع (س) جدعا: بڑی خوراک والا ہونا۔
صفت (جدع) الرجل: کان ناک کا
کٹ جانا۔ صفت (اجدع): مؤنث

جدعاک: تجذع
جدعہ: کس سے "جدعک" کہنا یعنی اللہ
تجھ کو حیب دار کرے اور تجھ سے خیر کو منقطع کر
دے۔

جداعہ ومجداعة وجداعا: گالی دینا۔
ججذرا کرنا۔

تجداعا: ہاہم جھگڑنا۔ ہاہم گالی گلوچ کرنا۔
اسی سے عرب کا قول ہے "تربحٹ البلاد
تجداع أفاعینها" میں نے ملک کو اس حال
میں چھوڑا کہ وہاں کے اشرار ایک دوسرے کو
کھائے جا رہے تھے۔

السجدعة: کانٹے کے بعد عضو کا بقیہ حصہ۔
کانٹے کی جگہ۔

جداع: بروزن قطام: سخت سال۔ کہا جاتا
ہے "واجتدعت بہم جداع" ان کو قحط کے
سال نے برباد کر دیا۔

المجدع: عضو کا ٹٹے کا اوزار۔
الجداع: موت۔

جذف (ض) جذوفاً الطير: کئے ہوئے پروں سے اڑنا..... الظبي: چھوٹے قدم سے چلنا..... الرجل: تیز چلنے میں ہاتھوں کو بلانا۔

جذف (ض) جذفاً الشئ: کاٹنا۔ الصلاح السفينة: چپو سے چلانا۔ السماء بالطلع: برف گرانہ۔

جذف: نعمت کی ناشکری کرنا۔ کہا جاتا ہے "لأنجذفوا بنعم الله" اللہ کی نعمتوں کی ناشکری مت کرو..... الصلح: چپو سے ڈوگنی چلانا..... على الله: کفر اور اہانت آمیز باتیں کرنا۔

جذف: عليه: جنگی میں مبتلا کیا جانا اور اسی سے ہے "وانه لمجذف عليه العيش" وہ تنگ دست ہے۔

أجذف: القوم: چلانا۔ شور مچانا۔ الجذفة: شور و شغب۔

رَجُلٌ (مَجذُوفٌ) اليد: چھوٹے ہاتھ والا۔ کئے ہوئے ہاتھ والا۔ "مَجذُوفٌ الأزار" والقسيس: چھوٹا تہ بند اور چھوٹی قمیص پہننے والا۔

المجذاف: چپو۔ مجذ الطير: پرندہ کے دونوں بازو۔ ج مجذيف.

التجذيف: کٹر کٹر۔ ج تجاديف.

الجذافي: المجذافاء: نیمت۔ الجذف: قبر۔ ج أجذاف.

جدل (ن ض) جدلاً: الحيل: بیانا۔ جدل (س) جدلاً: الرجل: سخت جھگڑا ہونا۔

(..... وجدل) (ن) جدلاً: الحب: خوشہ میں سخت ہونا۔ الولد: مضبوط اور سخت ہڈیوں والا ہونا۔

جدلہ (ض ن) جدلاً وجدلہ: زمین پر پک دینا۔ جدل الشعر: گوندھنا۔ چوٹی بنانا۔

جدالہ مجادلہ وجدالاً: جھگڑا کرنا۔ تجادللاً: ایک دوسرے سے جھگڑنا۔

تجدل وأنجدل: زمین پر پک جانا۔ الجدل: مص۔ سخت ٹھوس۔ عضوج جدول: قبر۔

جدلاء: ج جدل: جھگڑنا۔ الجدل عند المنظفين: ایسا قیاس جس میں شہرت کی وجہ سے کسی رائے کو جتنی تصور کر لیا گیا ہو۔ مثلاً فلاں بات بہ بات قسم کھاتا ہے لہذا جھوٹا ہے۔

الجدل: جھگڑا۔ جھگڑے کی مہارت۔ الجدلة: ہادہ کا دست۔

الجدالة: زمین۔ جدالة الخلق: گھٹتے ہوئے بدن والا۔

الجدیل: بنی ہوئی رستی۔ ج جدل. جدل الانسان: انسان کے ہاتھ پیروں کی جو رفتار ہڈی۔

الجديلة: طریقہ۔ کہا جاتا ہے "عملی علی جدیدیہ" اس نے اپنے طریقہ پر کام کیا۔ قبیلہ گوشہ۔ کنارہ رائے کی پختگی۔ کبوتر وغیرہ کا کابک۔

الجدلی: ججدل. ججدل. جدل: مضبوط زرہ۔ ج جدل.

الجدال والجدل والسمجدل والسمجدال: بہت جھگڑا والا۔ الجدال: کابک بیچنے والا۔

السمجدل: کل۔ ج مجادل. السمجدل: لوگوں کی جماعت۔

السمجدول: بنا ہوا یا مضبوط بنا ہوا۔ الجدول: فہرست۔ لسٹ۔

الجدول والجدول: نالہ۔ جدمة (ن) جدماً: کاٹنا۔ جدمة النخلة: پھلدار ہر کر خشک ہونا۔ صفت (جادم)

إنجدم: کٹ جانا۔ الجدمة: پست قدم۔

..... والجدامة: وہ بالیاں جو پہلی مرتبہ گائے میں نہ ٹوٹیں۔

الجدم: پست طبقہ کے لوگ۔

جدأ (ن) جدواً: عليه: عطید دینا۔ واجسدی انجدی: فلائنا: حاجت کا سوال کرنا۔ عطیہ مانگنا۔

أجدی إجداء: عطیہ پانا۔ فلائنا: عطیہ دینا..... الامر: نفع دینا۔ کہتے ہیں "ماجدی عنك هذا" تم کو یہ فائدہ نہیں دے گا۔

إجداه: عطیہ دینا۔ الجدا: عام بارش (..... والجداء): نفع عطیہ۔

الجدای: مانگنے والا۔ عطیہ دینے والا۔ الجادی: زعفران۔

الجدوی: عطیہ۔ الأجدی: زیادہ نفع۔

الجدی: نجی۔ الجدوة: گلہ۔ ریوڑ۔

جدی (ض) جدیاً: عطیہ طلب کرنا۔ أجدی إجداء: الجرح: بہنا۔

الجدی: پہلے سال کا بکری کا بچہ۔ ج أجدید وجداء وجدیان: قطب کے پہلو کے ایک ستارے کا نام جس کو "جدی الفراق" بھی کہتے ہیں آسمان کے ایک برج کا نام۔

الجدية: زمین یا پالان کے نیچے کی گدی ج جدی وجدیات.

الجدیاء: زعفران۔ جدء (ن) جدأ: کاٹنا۔ توڑنا۔ جدفی سیرہ: تیز چلنا۔

جدء: قوم سے اپنی بیروی چاہتا اور اس کا نہ ماننا۔

إنجد: کٹنا۔ ٹوٹنا۔

تجدء: ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ الجذاذ والجذاذ والجذاذ: توڑا ہوا۔

تجدء: سونے کے ڈالے۔ الجذاذة: ہر چیز کی زیادتی۔ کہا جاتا ہے "جدأته عليه كذا" وہ اس سے اتنا زیادہ۔

الجدادات: ریزہ۔ برادہ۔ کہا جاتا ہے "عندی جدادات من الفضة" میرے

پاس چاندی کے ریزے ہیں۔

السجد: کئی ہوئی چیز کا چھوٹا ٹکرا۔ تم کہتے ہو "نُفِثَ إِلَى الصَّمْغِ فَكَسَّرْتَهُ أَجْدَاذًا" میں بت پر لوٹ پڑا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔

الجدّة: نکلنا۔

الاجد: ٹوٹا ہوا۔ مؤنث جداء۔

جدبة (ض) جذبا واجتدبة. الید: کھینچنا۔ جذب الشہر: اکثر حصہ گزر جانا۔ جذبیت الناقۃ: کم دودھ والی ہوتا۔ الثہر عن امہ: دودھ چھڑانا۔

جاذبة الشی: کسی چیز کے بارے میں کشش کرتا۔

تجاذبا. الشی: کسی چیز کے بارے میں باہم کشش کرتا۔

تجدب. اللبن: پینا۔

انجذب: کھینچ جاتا۔ انجذب فی السیر: تیز چلنا یا دور تک جانا اور کہا جاتا ہے "انجذب بہم السیر" وہ لوگ دور تک چلے۔

الخصاذب: فاقم دودھ والی اونٹنی۔ ج جواذب وجذاب۔

الجدبة: دور کی مسافت۔ کہا جاتا ہے "بینہ وبين المنزل جدبة" اس کے اور منزل کے درمیان مسافت بعیدہ ہے۔

جذاب: موت کے لئے علم۔

الجدبۃ: کھینچنے کی قوت۔

السجدۃ: چھوٹی چیزوں کے شکار کرنے کا کہا۔

جذرة (ن) جذرا: کاٹنا۔ جڑ سے اکھیرنا۔

جذر. العذذ: عدد کا جذر حاصل کرتا۔

جذرة واجذرة: جڑ سے اکھیرنا۔

الجذر: جڑ سے اکھیرنا۔

الجذر والجذور: جڑ۔ جذر النبات: نباتات کی جڑیں جو زمین میں پھیلی ہوئی ہوں۔ ج جسدور: مربع کا جذر۔ جسدور البقرة: گائے کے سینگ۔

الجذریۃ: وہ دانت جو باہمیہ کے بعد ہو۔

المجدور: عدد کا مربع۔

المجدور: عدد اپنے آپ میں ضرب دینا مثلاً $10 \times 10 = 100$ حاصل ہوتے ہیں۔ 100 (سو) کا مجذور ہے۔

المجدور والمجودر والمجودر: تیل گائے کا بچہ۔ ج جوادز وجآذر۔

المجدر: بہت پست قدر۔

جدع (ف) جدعا. الدابة: بغیر چارہ کے روک رکھنا۔ بین العبرین: ایک رستی میں بانہٹنا۔

الجدع. من البہائم: چھوٹا بچہ۔ ج جداع وجدعان اور اس سے ہے "جدعان السجبال" چھوٹے پہاڑ۔ نوجوان اور کہا جاتا ہے "فلان فی ہذا الامر جدع" فلاں اس معاملہ میں نوآموز ہے۔

"واعدت الامر جدعا" میں نے اس کام کو از سر نو کیا۔ کہا جاتا ہے "ذهبوا جدع" جدع: یعنی برفیہ یعنی مشرق گئے۔

الجدع: درخت کا تنہ۔ ج جدوع وجدع وجدع. جدع الانسان: دھڑ۔ سر اور ہاتھوں اور ٹانگوں کے علاوہ انسان کا باقی جسم۔

المجدع والمجدع: بے اصل وبے ثبات۔

جدف (ف) جدفا واجدف. الطائر: تیز اڑنا۔ "جدفت واجدف المرأة" چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا۔

جدف وجدف. القارب: جہاز سے چلانا۔ الشی: کاٹنا۔

جدف: فی شیشہ: تیز چلنا۔ المجداف: سستی چلانے کا بیجو۔

المجدوف: کئی ہوئی ٹانگہ والا۔

جدل (س) جدلا واجتدل: خوش ہونا۔

صفت (جدل وجدلان) ج جدلان: مؤنث جدلة وجدلی۔

جدل (ن) جزولا واستجدل: سیدھا کھڑا ہونا۔

ج ذ م

أجدلہ: خوش کرنا۔

تجدل. القوم: باہم کینہ رکھنا۔ باہم دشمنی کرتا۔

الجدل. من الشجرة: بغیر شاخوں کے درخت کا تنہ۔ ٹھنڈھ۔ کہا جاتا ہے "عساد الشی الی جدلیہ" چیز اپنی اصل پر لوٹ آئی۔ نکڑی کا کندہ جو خارش والے اونٹ کے بدن پر گرٹنے کے لئے کھڑا کیا جائے۔

جدیل اس کی تغیر ہے اور اس سے ہے "انجدیلہا لمحكک" میں تجزیہ کار

واقف کار ہوں اور کہا جاتا ہے "ہو جدیل مال" وہ مال کا بہتر تنظیم ہے۔ ج جدال وجدل وجدولة۔

الجدال: فاقم شادماں۔ ستون کی مانند ایک جگہ پر کھڑا رہنے والا۔ "سقاء جدال" دودھ کو بد مزہ کر دینے والی منگ۔

جدم (ض) جدما وجدمة: جلدی سے کاٹنا۔

جدم جدما: کئے ہوئے ہاتھ یا کئی ہوئی انگلیوں والا ہونا۔

جدم: کوزھی ہونا۔ صفت (انجدم ومجدوم ومجدم)۔

أجدم. عن الشی: باز رہنا۔ علیہ: پینت ارادہ کرتا۔ فی سیرہ: تیز چلنا۔ بدہ: کاٹنا۔

انجدم وتجدم: کٹ جانا۔ الجدم والجدم: اصل۔ جڑ۔ ج جدوم وجدم۔

الجدمة والجدمة: ہاتھ میں کٹنے کی جگہ۔ الجدمة: نکلنا۔ چابک۔ کوزا۔

الجدمة: ٹڈا پین۔

الاجدم: ہتھ کٹنا۔ یا کئی ہوئی انگلیوں والا۔ مؤنث جدمی وجدماء اور کہا جاتا ہے "ہو اجدم الحجۃ" وہ شخص ایسا ہے جس کے پاس تدوین ہے نہ زور بیان۔

الجدامة: کئی ہوئی کھیتی کا باقی ماندہ۔

المجدام والمجدامة: امور میں جلدی

فیصلہ کرنے والا۔ جلدی سے دوستی کو ختم کر دینے والا۔

جدان (ن) جذوا و جذوا و اجذی۔ علی الشی: اچھی طرح کھڑا ہونا۔

تجاذی۔ الحجرا: اثاثا۔

الجداة: بڑے درختوں کی جڑیں۔ ج جذاء۔

الجدوة و الجدوة و الجدوة: بھڑکتا ہوا انگارہ۔ ج جذی و جدی و جذاء: کہا جاتا ہے "فلان جدوة شر" فلاں شر کا باپ اور اسے ہوا دینے والا ہے۔

جدی (ش) جذیبا و اجذی۔ فلانا عنہ:

منع کرنا۔

تجاذی تجاذیا: کھسک جانا۔

الجدی و الجذیة من الشجرة: جڑ۔

جوزة (ن) جزا و جزبه: کھینچنا۔ جزا لابل:

آہستہ ہانکنا۔ الكلمة: زیر لگانا۔ علی

نفسه جزویة: گناہ کا ارتکاب کرنا۔

جوزة و جزبه: بختی سے کھینچنا۔

جوازة و سسہ: بالکل آزاد چھوڑ دینا۔ نال

مٹول کرنا۔ کہا جاتا ہے "جوازہ الدین" اس

نے قرض ادا کرنے میں نال مٹول کی۔

الجوز: کھینچنا۔

جزوا و جزو: بگاڑی کرنا۔

جزو البعیر: بگاڑی کرنا۔ الفصل: دودھ

پینے سے روکنے کے لئے زبان چیر دینا۔

لسانہ: گفتگو کرنے سے منع کرنا۔ اجوزة

و سنہ: بالکل آزاد چھوڑ دینا۔ اجوزہ الریح:

تیز ہمساکر چھوڑ دینا۔ اجوزة الدین: مہلت

دینا۔

اجزوا و اجذر: الشی: کھینچنا۔

استجزو: الشی: کھینچنا۔ المال: تھوڑا

تھوڑا لینا۔ لفلان: مطیع و فرمانبردار ہونا۔

الجوز: مس اور اسی سے ہے "کان ذلك

عام كذا و هلم جوا الى اليوم" یہ واقعہ

فلاں سال میں ہوا اور آج تک ایسا ہی ہے۔

جز الخیل و امن کوہ: بگود غیرہ کا سوراخ۔

اعراب کی ایک قسم خواہ حرکت سے ہو یا

حرف سے۔

الجزرة: کھینچنے کی بیٹ۔ خانہ بدوش لوگ۔

(.....) و الجزرة: بگالی۔

الجزرة: جزر: کا اسم مرہ۔ گھڑا۔ ج

جز و جزوا:

الجزرة: بھولنے کی کچی ہوئی روٹی۔

الجزرة: گلہ بونے کے لئے سوراخ دار

برتن۔ ہرن کے شکار کے لئے لکڑی کا پھندا

ج جزر کہا جاتا ہے فعلت. ذلك من

(جزراك و جزرانك و جزراك و

جزراك): میں نے یہ تمہاری وجہ سے کیا۔

الجزری: ایک قسم کی پھلی جس کو پام کہتے

ہیں۔

الجزریة و الجزرینة: پرندے کا پونا۔

الجزارور: پانی بہنے کی جگہ۔ سیلاب کا بنایا ہوا

نال۔..... فی اصطلاح المولدين: صندوقی

جو کھینچنے سے کھلے۔

بئو (جزور): گہرا کنواں۔ قوس جزور:

قابو میں نہ آنے والا گھوڑا۔ امراة جزور:

لحی عورت۔

الجزویة: گناہ۔ کہا جاتا ہے "فعلت ذلك

من جزو ربك" میں نے اس کو تمہاری وجہ

سے کیا۔

الجزار: بہت کھینچنے والا۔ گھڑا بنانے والا۔

گھڑا پینے والا۔ جیشی جزوا: بہت بڑا لشکر

..... عوام چھوٹی صندوقی کے لئے لفظ جزوار کو

استعمال کرتے ہیں جو کھینچنے سے کھلتی ہو۔

الجزازة: زرد رنگ کا بچھو جو دم کو گھسیٹتا چلتا

ہے۔

الجزو: پانی بہنے کی جگہ۔ شبیر۔

الجزرة: کبکشاں۔ عوام اس کو "درب

الناسہ" کہتے ہیں۔

جزرة (ک) جزانة و جزارة و جزرة

و جزانية عليه: دلیری کرنا۔ صفت (جوری):

ج اجزاء و اجزیاء۔

جزرة تجزینا: جرأت دلانا۔ دلیر بنانا۔

اجزوا: دلیر ہو جانا۔

استنجوا:..... حثکف جرأت دکھانا۔

الجزیفة: درندوں کے شکار کرنے کا مکان۔

ج الجزالی:

الجزایفة: پونا۔ حلق۔

جزب (س) جزبا: خارش والا ہونا۔ صفت

(جزب و جزبان و اجرب) ج جزاب

و جزبسی و اجزاب و جزب. جزب

السيف: زنگ آلود ہونا۔

جزیة تجزینا و تجزیة: آڑنا۔

اجزب. القوم: قوم کے اونٹوں میں خارش

پھیلنا۔ کھلی میں مبتلا کرنا۔

الجزب: عیب۔ برائی۔ تلوار کا زنگ۔

الجزباء: اجرب کا مؤنث۔ قحط زدہ زمین۔

ستاروں بھرا آسمان۔

الجزباب: تلوار کا میان۔ چمڑے کا برتن۔

کونٹوں کا جوف۔ خصیبتین کی قھلی۔ ج آخریة

و جزب و جزب:

الجزباب: خالی شتی۔

الجزریة: بخت و قوی افراد (انسان ہو یا

حیوان) کھاؤ اور نکلے اہل و عیال۔

الجزیاء: شمالی ہو یا اس کی ٹھنڈک۔

الجزبان و الجزبان: من السيف: میان پر

تلہ۔ دھار۔..... من القمیص: مریان۔

الجزب: آرزوہ۔ دراهم مجزیة:

کھرے دراهم۔

الجزرة: ایک جگہ سے دوسری جگہ کوچ

کرنے والی قوم۔

جزیة: پھولوں کی ایک قسم۔ (جر برد)

جزیة: پھولوں کی ایک قسم۔ (Gerbra)

الجزوب: پانٹا بہ۔ (فارسیہ) ج جزواب

و جزوابة:

جزوبہ: پانٹا بہ پہننا۔

تجزوب: پانٹا بہ پہننا۔

الجزوت: ایک قسم کی پھلی۔ مارنا ہی۔

تجزوتم و اجزوتتم: اوپر سے نیچے کرنا اور سکر

کر زمین پر آ رہنا۔ اجزوتتم: چٹ کے رہ

جانا۔

<p>الجوراد: مذی۔ واحد۔ (جورادہ) الجورادہ: کڑی کا چمکا۔</p>	<p>الجوراح و الجوراحی: زخموں کا علاج کرنے والا۔ سرخ۔</p>	<p>الجورثوم و الجورثومة: من الشئی: جز۔ یا درخت کی جڑ میں جمع شدہ مٹی۔ من جورثوم۔ جورثومة النمل: پیوٹیوں کی بستی اور مسری زبان میں "جراثیم" (Germs) کے لئے استعمال ہوتا ہے۔</p>
<p>الجورید: کھجور کی مٹی جو پتوں سے صاف کر لی گئی ہو۔ واحد (جوریدہ)</p>	<p>الجورحة: جارح کا مؤنث۔ چھری۔ شکاری درندہ یا پرندہ یا کتا۔ عضو انسانی خصوصاً ہاتھ</p>	<p>جورح (س) جورحاً: الخاتمہ فی اصبعہ: ڈھیلی ہونے سے حرکت کرنا۔ صفت (جورح) الرجل: سخت زمین میں چلنا۔ الجورح: سخت زمین۔</p>
<p>الجوریدة: سواروں کا رسالہ جس میں پیادے نہ ہوں۔ مال کا بقیہ۔ رجس۔ اخبار۔ من جوراند۔</p>	<p>من جوراح: جوراح النهار: کتا ہے مصائب سے اور اسی سے ہے "نغوذ بالنہل من طوارق اللیل و جوراح النهار": ہم دن اور رات کے مصائب سے اللہ ن پناہ لیتے ہیں۔ "الجوراح من الطیر": شکاری پرندہ۔</p>	<p>جورج: جرجا۔ الخاتمہ فی اصبعہ: ڈھیلی ہونے سے حرکت کرنا۔ صفت (جورج) الرجل: سخت زمین میں چلنا۔ الجورج: سخت زمین۔</p>
<p>الجورڈ: بغیر نباتات والی زمین۔ پے پال۔ چھوٹے بالوں والا۔ مؤنث جسوڈاء: من۔</p>	<p>من جوراح: جوراح النهار: کتا ہے مصائب سے اور اسی سے ہے "نغوذ بالنہل من طوارق اللیل و جوراح النهار": ہم دن اور رات کے مصائب سے اللہ ن پناہ لیتے ہیں۔ "الجوراح من الطیر": شکاری پرندہ۔</p>	<p>الجورج: سخت زمین میں چلنا۔ الجورج: سخت زمین۔</p>
<p>جورڈ: الجورڈ من الخیل: گھڑوڑ میں آگے رہنے والا گھوڑا۔ لسن الجورڈ: پھانگ کا دوہو۔ صنخورة جورڈاء: صاف پکنی چٹان۔ حنمورة جورڈاء: شراب۔</p>	<p>من جوراح: جوراح النهار: کتا ہے مصائب سے اور اسی سے ہے "نغوذ بالنہل من طوارق اللیل و جوراح النهار": ہم دن اور رات کے مصائب سے اللہ ن پناہ لیتے ہیں۔ "الجوراح من الطیر": شکاری پرندہ۔</p>	<p>الجورج: سخت زمین میں چلنا۔ الجورج: سخت زمین۔</p>
<p>سافی و الجورڈ: سواروں کا رسالہ جس میں پیادے نہ ہوں اور کہا جاتا ہے "سار ایسہ فنڈ الجورڈین" میں نے اس کو پورے دو دن یا دو مہینے یا دو سال سے نہیں دیکھا "شفسر الجورڈ" پورا مہینہ۔</p>	<p>من جوراح: جوراح النهار: کتا ہے مصائب سے اور اسی سے ہے "نغوذ بالنہل من طوارق اللیل و جوراح النهار": ہم دن اور رات کے مصائب سے اللہ ن پناہ لیتے ہیں۔ "الجوراح من الطیر": شکاری پرندہ۔</p>	<p>الجورج: سخت زمین میں چلنا۔ الجورج: سخت زمین۔</p>
<p>سنة (جساروڈ و جساروڈة): سخت قیل والا سال۔</p>	<p>من جوراح: جوراح النهار: کتا ہے مصائب سے اور اسی سے ہے "نغوذ بالنہل من طوارق اللیل و جوراح النهار": ہم دن اور رات کے مصائب سے اللہ ن پناہ لیتے ہیں۔ "الجوراح من الطیر": شکاری پرندہ۔</p>	<p>الجورج: سخت زمین میں چلنا۔ الجورج: سخت زمین۔</p>
<p>الشجورید: فحویوں کے نزدیک کلمات کو لکھنے والی سے خالی کرنا جیسے زید قام اور سر شمس کے نزدیک زائد حروف سے خالی کرنا جیسے قام زید۔</p>	<p>من جوراح: جوراح النهار: کتا ہے مصائب سے اور اسی سے ہے "نغوذ بالنہل من طوارق اللیل و جوراح النهار": ہم دن اور رات کے مصائب سے اللہ ن پناہ لیتے ہیں۔ "الجوراح من الطیر": شکاری پرندہ۔</p>	<p>الجورج: سخت زمین میں چلنا۔ الجورج: سخت زمین۔</p>
<p>المجورڈ: دانقوں کے صاف کرنے کا برش۔ روئی دھتے والا آلہ۔</p>	<p>من جوراح: جوراح النهار: کتا ہے مصائب سے اور اسی سے ہے "نغوذ بالنہل من طوارق اللیل و جوراح النهار": ہم دن اور رات کے مصائب سے اللہ ن پناہ لیتے ہیں۔ "الجوراح من الطیر": شکاری پرندہ۔</p>	<p>الجورج: سخت زمین میں چلنا۔ الجورج: سخت زمین۔</p>
<p>الجوراد: تانے وغیرہ کے برتنوں کی کھنائی کرنے والا۔ قاتی کر۔</p>	<p>من جوراح: جوراح النهار: کتا ہے مصائب سے اور اسی سے ہے "نغوذ بالنہل من طوارق اللیل و جوراح النهار": ہم دن اور رات کے مصائب سے اللہ ن پناہ لیتے ہیں۔ "الجوراح من الطیر": شکاری پرندہ۔</p>	<p>الجورج: سخت زمین میں چلنا۔ الجورج: سخت زمین۔</p>
<p>المجورڈ: چھوٹے بالوں والا۔ الجورڈق و الجورڈقة: روئی۔ من جورادق۔</p>	<p>من جوراح: جوراح النهار: کتا ہے مصائب سے اور اسی سے ہے "نغوذ بالنہل من طوارق اللیل و جوراح النهار": ہم دن اور رات کے مصائب سے اللہ ن پناہ لیتے ہیں۔ "الجوراح من الطیر": شکاری پرندہ۔</p>	<p>الجورج: سخت زمین میں چلنا۔ الجورج: سخت زمین۔</p>
<p>المجورڈم: ہنر والی سیاہ مٹی بہت ہونے والا۔</p>	<p>من جوراح: جوراح النهار: کتا ہے مصائب سے اور اسی سے ہے "نغوذ بالنہل من طوارق اللیل و جوراح النهار": ہم دن اور رات کے مصائب سے اللہ ن پناہ لیتے ہیں۔ "الجوراح من الطیر": شکاری پرندہ۔</p>	<p>الجورج: سخت زمین میں چلنا۔ الجورج: سخت زمین۔</p>
<p>جورڈ (ن) جورڈا: الجورح: وہاں زخم کا بستہ ہو کر سو جانا۔</p>	<p>من جوراح: جوراح النهار: کتا ہے مصائب سے اور اسی سے ہے "نغوذ بالنہل من طوارق اللیل و جوراح النهار": ہم دن اور رات کے مصائب سے اللہ ن پناہ لیتے ہیں۔ "الجوراح من الطیر": شکاری پرندہ۔</p>	<p>الجورج: سخت زمین میں چلنا۔ الجورج: سخت زمین۔</p>
<p>جورڈ: الشجورة: کانٹوں کا تارنا۔</p>	<p>من جوراح: جوراح النهار: کتا ہے مصائب سے اور اسی سے ہے "نغوذ بالنہل من طوارق اللیل و جوراح النهار": ہم دن اور رات کے مصائب سے اللہ ن پناہ لیتے ہیں۔ "الجوراح من الطیر": شکاری پرندہ۔</p>	<p>الجورج: سخت زمین میں چلنا۔ الجورج: سخت زمین۔</p>
<p>الجورڈة: نکالنا۔ علیحدہ کرنا۔ الیہ: مجبور</p>	<p>من جوراح: جوراح النهار: کتا ہے مصائب سے اور اسی سے ہے "نغوذ بالنہل من طوارق اللیل و جوراح النهار": ہم دن اور رات کے مصائب سے اللہ ن پناہ لیتے ہیں۔ "الجوراح من الطیر": شکاری پرندہ۔</p>	<p>الجورج: سخت زمین میں چلنا۔ الجورج: سخت زمین۔</p>
<p>جورڈ (ن) جورڈا: الجورح: وہاں زخم کا بستہ ہو کر سو جانا۔</p>	<p>من جوراح: جوراح النهار: کتا ہے مصائب سے اور اسی سے ہے "نغوذ بالنہل من طوارق اللیل و جوراح النهار": ہم دن اور رات کے مصائب سے اللہ ن پناہ لیتے ہیں۔ "الجوراح من الطیر": شکاری پرندہ۔</p>	<p>الجورج: سخت زمین میں چلنا۔ الجورج: سخت زمین۔</p>
<p>جورڈ: الشجورة: کانٹوں کا تارنا۔</p>	<p>من جوراح: جوراح النهار: کتا ہے مصائب سے اور اسی سے ہے "نغوذ بالنہل من طوارق اللیل و جوراح النهار": ہم دن اور رات کے مصائب سے اللہ ن پناہ لیتے ہیں۔ "الجوراح من الطیر": شکاری پرندہ۔</p>	<p>الجورج: سخت زمین میں چلنا۔ الجورج: سخت زمین۔</p>
<p>الجورڈة: نکالنا۔ علیحدہ کرنا۔ الیہ: مجبور</p>	<p>من جوراح: جوراح النهار: کتا ہے مصائب سے اور اسی سے ہے "نغوذ بالنہل من طوارق اللیل و جوراح النهار": ہم دن اور رات کے مصائب سے اللہ ن پناہ لیتے ہیں۔ "الجوراح من الطیر": شکاری پرندہ۔</p>	<p>الجورج: سخت زمین میں چلنا۔ الجورج: سخت زمین۔</p>
<p>جورڈ (ن) جورڈا: الجورح: وہاں زخم کا بستہ ہو کر سو جانا۔</p>	<p>من جوراح: جوراح النهار: کتا ہے مصائب سے اور اسی سے ہے "نغوذ بالنہل من طوارق اللیل و جوراح النهار": ہم دن اور رات کے مصائب سے اللہ ن پناہ لیتے ہیں۔ "الجوراح من الطیر": شکاری پرندہ۔</p>	<p>الجورج: سخت زمین میں چلنا۔ الجورج: سخت زمین۔</p>

کرنا۔

الجوزة: جانور کے کوچ کا درم۔

الجوزة: ایک قسم کا چوبہ۔ ج جوزدان: کہا جاتا ہے "تفرقت جوزدان بیتہ" اس کے گھر میں چوبے قلابازی کھارے ہیں۔

ارض (جوزدة): بہت چوہوں والی زمین۔
المجوزة: آرمودہ کار۔

الاجوزة: وہ شخص جو چلنے میں قدم کا اگلا حصہ قریب قریب رکھے اور ایزی ڈورڈور۔
أم جوزدان: ایک قسم کی مچھور۔

جوز (ن) جوزنا: کاٹنا۔ جزے اُکھیرنا۔
.....ہ الزمان: بلاک کرنا۔ ہ بالشم:

گالی دینا۔ کہا جاتا ہے "جوز ما علی المائدة" دسترخوان کا سب کچھ صاف کر گیا۔

جوز (ک) جوازة: پیڑی ہونا۔
جوزت (س) جوزا: الارض: شجر ہونا۔

صفت (جوازة) ج جوارز۔
جوازة جوارا ومجازة: گالی کے مشابہ خوش طبعی کرنا۔

أجوز: البعير: لاغر ہونا..... المسكان: قحط زدہ ہونا۔ صفت (مجاز)

تجواز: القوم: باہم گالی گلوچ کرنا۔
الارض (الجوزو والمجوزو): شجر

زمین۔ زمین جس کی گھاس چر لی گئی ہو۔ ج
أجراز: کہا جاتا ہے "أرض جوز وأرض

أجزاء وأرضون أجزاز"۔
الجوز: عورتوں کا ایک لباس۔

الجوز: لوبو یا چاندی کا ستون۔ ج
أجزاز وجوزة: کہا جاتا ہے "طوب الحية

أجزازها" سانپ کڈلی مار کے بیٹھ گیا۔
"وظوی فلان أجزازة" فلاں نے سستی

کی۔
الجوز: خشک سال۔ جسم۔ انسان کا سینہ۔

اوتھ کی پیٹھ کا گوشت۔
الجوزة: بلاکت۔ کہا جاتا ہے "زماة اللہ

بجوزة" اللہ اس کو بلاک کرے۔
أجزازة: گٹھا۔ بندل۔ ج جوز۔

الجوز: شمشیر براں۔

الجوز: بہت کھانے والا جو دسترخوان کو صاف کر دے۔

المجوز: من الامکنة: نبات بریدہ جگہ۔
الجوزم: بے سائن کی خشک روٹی۔

جوس (ض) جوسا: بولنا۔ آواز سنانا.....
الکلام: ترنم سے پڑھنا..... الشی: زبان

سے چاشنا۔
أجوس: الظالم: اڑنے میں سرسراہٹ کی

آواز سنانی دینا..... الحادی: حدی کاٹنا.....
الجوس: بجانا..... والجوس: الحلی:

بھنکار ہونا۔ جتا۔
جوسہ: الدهر: تجربہ کار بنانا۔ جوس بہم:

بدنام کرنا۔
تجوس: بولنا۔ گفتگو کرنا۔ نعرہ سرائی کرنا۔

إجتوس: المال: کماتا۔
الجوس والجوس: آواز۔ آہستہ آواز۔

الجوس: اصل۔ کہا جاتا ہے "هو من خیر جوس" وہ شریف خاندان سے ہے۔ ج

أجواس۔
الجوس: گھنٹہ۔ گھریال۔ ج أجواس۔

ذات الاجواس: ایک قسم کا سانپ جس کی آواز گھنٹہ کی مانند ہوتی ہے۔

الجواسة: گھاس کھانے والا کبوتر۔ ج
جواس۔

الجواس: شہد کی کھیاں۔
الجواسة: آرمودہ کاری۔

المجوس: تجربہ کار۔ کہا جاتا ہے "ساقفة مجوس" سدھائی ہوئی اونٹنی۔

جوسا: سفید یا سفیدی پھولوں والا پودا
زیادہ تر آرائش و زیبائش کے لیے اُگایا جاتا

ہے۔
جوس (ن) جوسا: الحب والقمح:

دلنا۔ (.....) وجوس: السراس: کھجلا کر مچھوس
نکانا۔

إجتوس: لعیالہ: کمائی کرنا..... الشی:
اُچک لینا۔

الجوزوش والنجازوشة: غلہ دلنے کی چکی۔

ج جواریش۔
الجوش: مٹس۔ سانپ کے کینچلی سے نکلنے کی

آواز۔
والجوش والجوش والنجوش: من

اللیل: رات کا ایک حصہ۔ کہا جاتا ہے
"مضی جوش من اللیل" رات کا ایک

حصہ گزر گیا۔ ج أجوش وجوش۔
جواسة: الحب: دلا ہوانلد۔ سر کی مچھوس۔

الجوارش: جوارش۔ (دو)
الجوش والمجروش: دلا ہوا۔

جوش (س) جوسا: بریقہ: تقریباً نم کی
وجہ سے مشکل سے تھوک لگانا..... ونفسہ:

یکبارگی نکل لینا۔ کہا جاتا ہے "فلان
یجوش علیک ربقہ غیظا" یعنی فلاں

تمہارے اوپر دانت چیر رہا ہے۔
جوش (ن) جوسا: گلا گھونٹنا۔ کہا جاتا

ہے "هو یجوش نفسه" وہ مرنے والا
ہے۔

أجوش: بریقہ: اچھو لگوانا۔
الجوش والجوش: تھوک جس سے پھندا

لگ جائے اور اسی سے مثل ہے "حال
الجوش ذون القریض" شعر کہنے سے

شدید غم نے روک دیا۔
الجوش: غمگین۔ ج جوش اور کہا جاتا

ہے "فلت فلان جوشا" فلاں مرنے ہی
والا ہے۔

الجواض والجواض والجواض: بہت
غمگین۔

الجواض والجواض والجواض: بہت
کھانے والا۔ ساقفة (جوشم وجوشم):

موتی تازی اونٹنی۔
جوع (ف) جوعا وجوع (س) جوعا

وإجتوع اجتوعا: الماء: یکبارگی پی لینا۔
جوعا: الماء: ایک ایک گھونٹ کر کے پلانا۔

تجوع: الماء: تھوڑا تھوڑا پینا..... الغیظ:
غصہ پی جانا۔

<p>جسومَسَز وَاَجْرَمَسَز. الرُّجُلُ بِسْمَتَا لُونَا۔ بھاگنا۔ جواب میں غلطی کرنا۔ السجرامیز من الحيوان: جانور کی ٹانگیں۔ کہا جاتا ہے "ضمَّ الثورُ سجراميزه" تیل نے اپنی ٹانگیں سمیٹ لیں "واخذہ بجراميزه" اس نے سب لے لیا۔</p>	<p>الجَزَل: تخت اور پتھر لی زمین ج اَجْرَال۔ الجَزُول: پتھر لی زمین۔ ج جزا اول۔ الجَزِيَال والجَزِيَالَة: شراب یا اس کا رنگ۔ جَزْم (ض) جَزْمًا: الشئ: کاشا۔ پورا کرنا الناقه: اُون کتر (..... جَزْمًا وجزامًا وجزامًا) النخل: کھجوریں کاشا۔</p>	<p>أَجْرَعِيَت. الناقَةُ: کم وودھ والی ہونا۔ صفت (مُجْرَع) ج مَجْرَاع و مَجْرَاعِيَت الجُرْعَة والجُرْعَة والجُرْعَة: کھونٹ۔ الجُرْعَة ج جُرْع و جِرْعَان و (الجُرْعَاء) ج جِرْعَاوَات و (الأَجْرَع) ج أَجْرَاع: ہموار، تلامی میدان جس میں کچھ نہاگے۔ جُرْف (ف) جُرْفًا و جُرْفًا و تَجْرُف و اجترِف. الشئ: کل یا اکثر حصہ کو لے جانا الطين: کھرت لے جانا۔</p>
<p>السَجْرُمُوق: موزہ۔ وہ چیز جو موزہ کے اوپر اس کی حفاظت کے لئے پہنی جاتی ہے۔ عوام اس کو "کالوش" کہتے ہیں۔ جَزُون (ن) جَزُونًا: الثوب: بوسیدہ و نرم ہونا عسلي الامر: تجور ہونا۔ عادی ہونا۔ کہا جاتا ہے "جَزُونَت يده على العقل" اس کا ہاتھ کام میں مشتاق ہو گیا۔ جَزُونًا: الحب: پیسنا۔ أَجْرُون. الحب: کھلیان میں جمع کرنا۔ اجتْرُون: کھلیان بنانا۔</p>	<p>جَزْم (ن) جَزْمًا و اجترَم. لاهله: کمانا۔ جَزْم (ض) جَزِيمَة و اجترَم. اليه و عليه: گناہ کرنا۔ جَزْم (س) جَزْمًا: گری ہوئی کھجوریں کھانا لُونَه: صاف ہونا۔ جَزْم (ك) جَزِيمَة: عظیم الجرم ہونا۔ بڑا گناہ کرنا۔ جَزْمَه: کاشا۔ جَزْمَه و تَجَزْم عليه: گناہ کی تہمت لگانا۔ تَجَزْم الزمان او الشتاء: ختم ہو جانا۔ کہا جاتا ہے "عامٌ مُجَزْم" پورا سال۔</p>	<p>أَجْرَف: السراعی اِبلسَة: اونٹ چرانا۔ الْجُرْف: چارہ أَجْرَف. المكان: سیلاب زدہ ہونا۔ السَجْرَف: بھس۔ بہت مال (مویٹی چاندی سونا وغیرہ۔ سرسبزی۔ وہ داغ جو اونٹ کی ران یا بدن پر لگایا جاتا ہے۔ الجُرْف ج جُرْفَة و (الجُرْف) ج أَجْرُف: دریا کے کنارے کا وہ حصہ جس کو پانی نے کھوکھلا کر دیا ہو اور اسی سے ہے "فَلَان يَسِي على جُرْف هار لا يَسِدِي ما لَيْل من نهار" فلان دریا کے کرتے ہوئے کنارے پر گھبراتا ہے اور اسے لیل و نہار کی تیز نہیں۔</p>
<p>السجرون: سانپ کا بچہ۔ مٹے ہوئے نشان والا راستہ..... من السماع: استعمال شدہ بوسیدہ سامان۔ سقساء جدران: سخت چیزے والی مٹک۔ ذرع جدرانة: نرم زرہ۔ ج حوارین و جارفات. السَجْرُون: پانی وغیرہ کے لئے کھدا ہوا پتھر۔ ج أَجْرَان و جِرَان. (.....) والجِرُون ج جِرُون: کھلیان کھجور وغیرہ خشک کرنے کی جگہ۔ السجران. من البعير: اونٹ کی گردن کا اگا حصہ۔ ج جِرُون و اجْرِنَة اور کہا جاتا ہے "القسي البعير جرانة" یعنی اونٹ بیٹھ گیا۔ "والقسي فلان على هذا الامر جرانة" یعنی فلاں نے اس مقصد پر اپنی نظر جما دی۔ "وضرب الاسلام بجرانیه" اسلام نے جڑ پکڑ لی۔ "وضرب اللیل بجرانیه" رات آ گئی "والقسي عليه جرانة" اس نے اپنا بوجھ اس پر ڈال دیا۔ السجرون: کھلیان۔ رجحل سجرون: بہت کھانے والا مرد۔ السجرون. من السياط: نرم اور چکنا کوڑا۔ جُرَّة تجْرِيهَا. الامر: ظاہر و آشکارا کرنا۔</p>	<p>جَزْمَة و تَجَزْم عليه: گناہ کی تہمت لگانا۔ تَجَزْم الزمان او الشتاء: ختم ہو جانا۔ کہا جاتا ہے "عامٌ مُجَزْم" پورا سال۔ السجْرَم: بھس (.....) والسجْرَم: گناہ۔ ج جَزْرُوم و اجْرَام اور کہا جاتا ہے "لا جَزْم ولا جَزْم" یعنی ضروری یقیناً اور کبھی قسم کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے "لا جَزْم لا فَعْلَن كَذَا" میں بخدا ایسا کروں گا۔ السجْرَم: بھس ڈوگی۔ گرم ملک۔ ج جَزْرُوم. السجْرُوم: گرم ملک۔ اس کے مقابلے میں "المضروود" ہے یعنی سرد ملک۔ السجْرُوم: جسم۔ رنگ۔ باسلاط فلسفہ ستارہ و آسمان۔ ج اجْرَام و جَزْم و جَزْرُوم. السجْرَام و الجْرَام و الجْرِيم: خشک کھجور۔ چھو بارہ۔ السجْرِنم: بڑے جسم والا۔ گنہگار۔ مؤنث جَزْرِنَة ج جِرَام. الجَزْرِنَة: جرم۔ گناہ۔ کھٹل: تشجر جَزْرِنَة: کاشا ہوا درخت۔ السجْرِنَة: آخری بچہ۔ کہا جاتا ہے "هو جَزْرِنَة اهلہ" وہ اپنے اہل کے لئے کمانے والا ہے۔ "والعقاب جَزْرِنَة فَرَجِيهَا" عقاب اپنے بچوں کی خوراک لانے والا ہے۔</p>	<p>من السيل: تمام چیزوں کو بہانے جانے والا سیلاب اور کہا جاتا ہے "رجلٌ جُرَاف" تمام کھانا کھانے والا مرد۔ (.....) والجُرَاب: ایک قسم کا پیمانہ۔ السجْرَاف: فا۔ طاعون۔ عام تباہ کن موت (چاہے انسان کی ہو یا مویٹی کی) السجْرَاف: بہت کھانے والا۔ تیز بہانے جانے والا۔ مَحْوَس: مؤنث جَار و فَة. الجُرَاف: بہت تیز بہانے جانے والا۔ المُجْرَف و المُجْرَف: وہ شخص جس کا تمام مال برباد ہو گیا ہو۔ المجْرَف و المجْرَفَة: بچلے۔ پھاوڑہ۔ جَزْرَفَة: بچھاڑنا..... الشئ: بہت حرص سے کھانا۔ جَزَل (س) جَزَلًا: المكان: سخت اور پتھر لی ہونا۔</p>

تجزہ. الامر: ظاہر و آشکار ہونا۔

الجراہیۃ: ظاہر و آشکارا کہا جاتا ہے
”سمعت جراہیۃ القوم“ میں نے قوم کی بیخ
پکارتی۔

جوہد و اجزہد: فی السیر: تیز چلنا۔

الجوہد و الجزہد: پھرتلا چلنے والا۔

الجزہاس: بڑا قومی شیر۔

الجزہام و الجزہام: شیر۔ الجزہام: بڑا
پہاڑ۔ بڑا اونٹ۔

اجزہ اجزاء: الکلیۃ: پیوں والی ہونا۔

الجزرو: بتثلیث العجیم: ہر چھوٹی چیز یہاں

تک کہ اتار اور خرپورہ بھی اور عموماً کتے اور شیر

کے بچے کے لئے مستعمل ہے۔ جج ججراہ

واجز و جج اجزیۃ۔

الجزوۃ: بتثلیث العجیم: جرود کا مؤنث۔ کہا

جاتا ہے ”ضرب علی الامر جزوۃ“ اس

نے اس کام میں عبر و استفادہ سے کام لیا۔

”وضرب جزوۃ عنہ“ اس نے عبر کر لیا۔

کلیۃ (مضجر و مضجریۃ): پیوں والی تیتیا۔

جوزی (ض) جزینا و جزینانا و جزینۃ۔

الساء: جاری ہونا۔ بنانا۔ کہا جاتا ہے ”فہجر

سربیع الجزریۃ“ تیز بہنے والی ندی۔

الفرس: دورنا۔ الامر: واقع ہونا۔ الی

الشی: تصدوار ادا کرنا۔

اجزى الکلمۃ: کلمہ کو منصرف بنانا۔

جزی و اجزی: السماء: جاری کرنا۔ بہانا۔

اجزى لہ الحساب: کسی کا حساب درج

رجسٹر کرنا۔ علیہ الحساب: کسی کے ذمہ

بتایا نکالنا۔

جزی فلانا: وکیل بنا کر بھیجنا۔ اجزی الامر:

نافذ کرنا۔ جاری کرنا۔ اجزی الامر الی

فلان: سپرد کرنا یا نسبت کرنا۔ اجزی الی

الشی: تصدوار ادا کرنا۔ اجزی علیہ الرزق:

جاری کرنا۔ معین کرنا۔

اجزی القصاص: قصاص لینا۔ اجزی

الکلمۃ: منصرف کر دینا۔

ساتھ دوڑنا۔ چلنا۔ کہا جاتا ہے ”السیدین

والسرهین یتجازیان“ قرض اور زمین ایک ہی

طرح کے ہیں۔ جاری فی الامر: موافقت

کرنا۔

استجری: فلان: کسی سے دوڑنے یا چلنے

کے لئے کہنا۔ وکیل بنانا۔

الجزی: وکیل۔ پیغامبر۔ مزدور۔ ضامن۔ کہا

جاتا ہے ”هو جزی لہ“ وہ اس کا ضامن ہے

جج اجزیاء: کہا جاتا ہے ”من جزاک او من

جزاک“ یعنی تمہاری وجہ سے۔

الجزایۃ: وظیفہ۔ فوجی کاروبار۔ والجزاء

والجزاء: جوانی۔ کہا جاتا ہے ”جاریۃ بیئۃ

الجزایۃ“ اچھی جوان لڑکی۔

الجزایۃ و الجزایۃ: کالت۔

الاجزیۃ و الاجزیۃ: کام کا طریقہ۔ خلق۔

طبیعت۔ کہا جاتا ہے ”جزی علی اجزیاء

واجزیاء“ وہ اپنی فطرت پر چلا۔

الجزی و الجزیۃ: ایک قسم کی پھل۔ مار

مانی۔ پام۔

الجزیۃ: پونا۔

الجزای: ترکی رسم الخط کی ایک قسم جو کہ خط

نسخی دیوانی اور نستعلیق سے لیا گیا۔

الجزای: فاء۔ ”نہر جاری“ وہ دریا جو خشک نہ

ہو۔

الجزایۃ: جاری۔ کامؤنث۔ بیٹی۔

باندی۔ آفتاب۔ کشی۔ سانپ۔ جج جاریات

و جوار۔

الجزی: پانی بہنے کی جگہ۔ گزرگاہ۔ جج

مجاز۔

المساجد: واقعات و حوادث۔ جزی

ماجزی۔ ہے۔ کہا جاتا ہے۔ ”کانت

بیتہم فساظرات و فساظریات بطول

شرحہا“

جز (ن) جزاً و جززاً و اجزئاً: الصوف او

العشب او النخل: کاٹنا۔

جز و اجز و استجز: الغنم او البئر

اجز الصمر: خشک ہونا۔ اجز القوم: کتری

ہوئی۔ مجیزوں والی یا کئی ہوئی کھیتی والی ہونا۔

الجزۃ: کتری ہوئی اون۔ جج جز و جزانہ

الجزز: غیر مستعمل اون۔

الجزاز و الجزازۃ: اون کا وہ حصہ جو کاٹتے

وقت زمین پر گرے۔ جزاز من اللیل: رات

کا ایک حصہ۔

الجزاز و الجزاز: کھیت کی کٹائی۔ کترنے یا

کاٹنے کا وقت۔

الجزوۃ: من الغنم: بھیڑ جو کتری جائے جج

جزز۔

الجزیز: کتر ہوا۔ کاٹا ہوا۔

الجزیزۃ: اون کا ٹھکانا۔

الجزاز: کترنے یا کاٹنے والا۔

الجزز: کترنی۔ بیٹی۔

جز (ف) جزءاً: الشی: اجزاء میں تقسیم

کرنا۔ ایک جزء لینا۔ (جج جز و اجزأ)

بالشی: انکشاف کرنا۔

جز اجزأۃ تجزینا: الشی: تقسیم کرنا۔

(جزأ و اجزأ): بالشی: قائل بنانا۔ کہا جاتا

ہے ”جزأ الماشیۃ بالرطب عن الماء“

جانور کو تر گھاس کھائی اور پانی پلانے کی

ضرورت نہیں ہوئی۔ اجزأ عنہ: مستثنی ہونا۔

تجزأ: تقسیم ہونا۔

الجزء: بعض۔ کفایت۔ کہا جاتا ہے لک فی

هذا غناء و جزء“ تمہارے لئے اتنا بس

ہے۔

الجزء: چیز کا ایک حصہ۔ جج اجزأ اور اسی معنی

میں جزء و جزأ: بھی ہے۔

الجزئی: جر کی جانب منسوب۔ کلی کی ضد۔

الجزئیۃ: ضد کلیت۔ جج جزئیات۔

الجزأ: چھری۔ ستاں وغیرہ کا دستہ۔

المنجز او المنجزأ و المنجز او المنجزأ: کسی

چیز کا اتنا حصہ جو کافی ہو۔ کہا جاتا ہے

”انجزأ منجزاً فلان و منجزاً و منجزأہ

و منجزأہ“ وہ فلان کا قائم مقام ہوا۔

المنجزی و المنجزی: من الطعام: آسودہ

<p>کرتا۔ تم کہتے ہو "جلف یمنینا جزماً الامر: کسی امر کا قطعی فیصلہ کرنا۔ تم کہتے ہو "امرہ امرأ جزماً" میں نے اس کو لازمی حکم دیا۔ "وہذا حکم جزم" یہ لازمی و قطعی حکم ہے۔ جزم الی الامر: پختہ ارادہ کرنا۔ جزم علیہ الشئ: واجب کرنا۔ الرجل: دن رات میں ایک ہی مرتبہ کھانا۔ (واجتزم) السخلۃ: پھلوں کا اندازہ کرنا۔ (واجزوم) عنه: بزدل ہونا، عاجز ہونا۔ علیہ: خاموش ہونا۔ القریۃ: بھرتا۔ تجزم: العود: پھٹنا۔ انجزم: العظم: ٹوٹنا۔ الحرف: ساکن ہونا۔ الجزم: مص: کہا جاتا ہے "قلم جزم" برابر قد والا۔ "امر جزوم" وقت سے پہلے آنے والا معاملہ۔ الجزم: حصہ۔ الجزام: فاجرم کا فعل کرنے والا۔ جیسے لم سقاء جزام: بھری ہوئی مشک۔ بعیر جزام: یراب اونٹ۔ جزام: جزام۔ الجزامۃ: دن رات میں ایک مرتبہ کھانا۔ الجزامۃ: بھیروں کے ریوز کا ایک حصہ۔ سقاء او انشاء (مجزوم): بھری ہوئی مشک یا برتن۔ جزی (ن) جزاء: الرجل بكذا وعلی كذا: بدلہ دینا۔ جزی فلاناً حقہ: ادا کرنا۔ جزاه الشئ کافی ہونا۔ (واجزی) الامر منہ او عنہ: قائم مقام ہونا۔ تم کہتے ہو "یجزی هذا من او عن ذاک" یہ اس کے قائم مقام ہے۔ جازاہ مجازاۃ و جزاء: بدلہ دینا۔ تجزای تجازیاً: دینہ و بدینہ علی فلان: طلب کرنا۔ تقاضا کرنا۔ اجتزوا: بدلہ مانگنا۔ الجزاء و الجزاء و الجزایۃ و المجازاۃ: کسی چیز کا بدلہ۔ الجزایۃ: کی جمع الجوازی: کہا جاتا ہے "جنت تک الجوازی" یعنی تم</p>	<p>نے اپنے فعل کا بدلہ پایا۔ الجزیۃ: زمین کا محصول۔ ٹیکس جو ذمی سے لیا جائے۔ جزی و جزوی و جزاء: الاجزى: بہت کافی۔ تم کہتے ہو "اللحم السمین اجزى من المہزول" موٹا گوشت دبے سے زیادہ بہتر ہے۔ جسۃ (ن) جساً و اجسۃ: معلوم کرنے کے لئے ہاتھ سے چھونا۔ الارض: روٹنا۔ ہ بعینہ: ٹھورنا۔ تیر نظر انا۔ جس و تجسس و اجسس: الاحبار او الامور: تفتیش کرنا۔ الجسس: جاجسۃ و (الجاسوس): ج جواسیس و الجسائس: جاسوس۔ برائی کی نیت سے خبروں کی تفتیش کرنے والا۔ جواس: الانسان: انسان کے حواس خمسہ واحد (جاسۃ) الجاسوسیۃ: پولیس یا فوج کا ایک خفیہ محکمہ۔ (سی۔ آئی۔ ڈی) المجسس و المجسسۃ: چھونے کی جگہ۔ سینہ۔ کہا جاتا ہے "فلان ضیق المجسس او المجسسۃ" فلاں تنگ دل ہے۔ المجسسۃ: نہض۔ کہا جاتا ہے "مجسسہ حارۃ" اس کی نہض گرم ہے۔ مججاس۔ المجسسۃ: چھونے کا آلہ۔ مججاس ومججسات۔ جسأت (ف) جسناً و جسوءاً او جسناً: الیمن العمل: کام کرنے کی وجہ سے سخت ہونا۔ عفت (جاسنۃ و جسناۃ) الجس: سخت کمال۔ جما ہوا پانی۔ الجاسیۃ: من النبات ونحوہ: خشک۔ جسید (س) جسداً: الدم بسہ: چپکانا۔ (جسید و جاسید) جسدة: زعفران سے لگانا۔ تجسس: تن آدور ہونا۔ الجسس: بدن انسانی۔ زعفران۔ خشک خون ج آجساد: نسبت کے لئے (جسدی</p>	<p>و جسۃ انہی) تجسس: جسم وہ ہونا۔ الجساد: زعفران۔ الجساد: پیت کا درد۔ الجسید: خشک خون۔ المجسس: کرتہ جو بدن سے متصل ہو۔ بیان۔ جس (ن) جسارۃ و جسوراً: علی الامر: اقدام کرنا۔ (وتجاسر): فخر کرنا۔ جری ہونا۔ جس (ن) جسوراً: پل بنانا واجتسر المفازاۃ: عبور کرنا۔ جسرة: بہادر بنانا۔ الجسور و الجسور: پل۔ جسور واجسور: الجسر من الابل: بڑا اونٹ من الرجال: بڑے ذیل ڈول کا مرد مؤنث جسرة۔ الجاسر ج جاسار و جاسرون و (الجسور) ج جسور و جسور: لیر۔ پیش قدمی کرنے والا۔ مؤنث جاسیرۃ و جسور: ج جواسر۔ الجسرة: لیری۔ بہادری۔ الجسار: بہت لیری کرنے والا۔ جسع (ف) جسوعاً: عن العطاء: باز رہنا۔ رک جانا۔ الجاسع: من السفر: لماسفر۔ جسم (ک) جسامة: تاؤر ہونا۔ عفت (جسام و جسیم) ج جسام: مؤنث (جسیمۃ و جسامة) جسمۃ: تن آدور ہونا کرنا۔ تجسس: تاؤر ہونا ہونا۔ تجسس فی عینی کذا: خیال میں آنا۔ الامر: کسی بڑے کام کی طرف اقدام کرنا۔ الرمل: ریگستان کے بڑے حصے کو طے کر لینا فلاناً من بین القوم: انتخاب کرنا۔ الارض: ارادہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "تجسس فلان من الکرم" فلاں بڑا فیاں ہے گویا کہ وہ کرم کا مجسم ہے۔</p>
---	--	---

الجنم بدن۔ وہ چیز جس میں طول و عرض عق میں ہو۔ ج أجسام و أجسام و جنوم: نسبت کے لئے (جسیتی و جسمانی) الجنمان بدن۔ الجنم: بڑے بڑے امور۔ الاجنم: تناور اور بڑا۔ المجنم: وہ عدد جو کسی جسم کی لمبائی کو عرض و عق میں ضرب دینے سے حاصل ہو۔ ہر وہ چیز جس میں طول عرض عق ہو۔ جسا (ن) جسو او جسوا: بمعنی جسا۔ جسانہ مجناسا: دشمنی کرنا۔ جشہ (ن) جشا: کوٹنا۔ توڑنا۔ جش المکان: ہماڑ دینا۔ صاف کرنا۔ ہ بالعصاء: لٹکی سے مارنا۔ دقعا: بہانا۔ القوم: کوچ کرنا۔ اکٹھا ہونا۔ آجش۔ الشی: کوٹنا۔ توڑنا۔ البو: موٹا پینا۔ صفت مفعول (جشیش و جشوش) آجش و اجش۔ المكان: گنجان گھاس والی ہونا۔ الجش: جس۔ موضع جش: سخت پتھر لی جگ۔ الجش: پہاڑ۔ ج جشاش۔ الجشہ و الجشہ: لوگوں کا ایک ساتھ آنے والا گروہ۔ بھدی آواز۔ الاجش: بھدی آواز والا آدمی۔ مؤنث جشاء۔ المجش و المجشہ: بچل۔ جشا نفسه (ف) جشوا و جشوا و جشا: غم یا گھبراہٹ کی وجہ سے جی متلاتا المكان: خوب پیداوار ہونا من المکان: لٹکا البحر: جوش میں آنا۔ جشا تجشنة و تجشاة جشوا: ڈکار لینا۔ اجشأ۔ البلاد و اجشأ ته البلاد: ناموافق ہونا۔ الجشا: ڈکار۔ واحد جشاة و جشاة۔ جشب (ف) و جشب (س) جشبا و جشب: (ک) جشابة. الطعام: موٹا	و بد مزہ ہونا۔ صفت (جشب و جشب) و جشب و جشبات و مجشوبت) و جشب الرجل: بد غذا ہونا۔ المجشب: موٹے جسم والا بہادر۔ جشر (ن) جشرا و جشرا. المواشى: چرانے کیلئے لے جانا۔ و جشرا النساء: خالی کرنا۔ جشر (ن) جشوزا. المصبغ: پو پھٹنا الزجل: ستر کرنا۔ جشرا (س) جشرا و جشرا: کھانسا۔ آواز بیٹھنا۔ صفت (أجشر) مؤنث جشراء: ج جشور۔ الجشور و الجشار: موٹی جو چراگاہ سے لوٹ کر شام کو گھر پر نہ آئیں۔ وہ لوگ جو چراگاہ ہی میں رات گزاریں اور گھر پر واپس نہ آئیں۔ الجشاری: چرواہا۔ المجشور: جوش۔ ج مجشور۔ الجشور: پڑے کا تیر دان۔ الجشار: کھانسی۔ الجشرة: سینہ کی تخی۔ خشک کھانسی۔ جشع (س) جشعا و جشع: بدترین قسم کا لاچی ہونا۔ صفت (جشع) ج جشعون و جشاعی و جشعاء و جشاع۔ جشاعا. الماء: باہم لگی کرنا اور پیاسا رہنا۔ جشيم (س) جشما و جشامة و جشيم الامر: مشقت سے کام کرنا۔ کہا جاتا ہے "جشيت البک عرق القرية" تمہاری وجہ سے بڑی مصیبت جمی۔ و جشيم الرمل: ریگستان کے بڑے حصہ کو طے کیا۔ "و جشيم فلانا من بين القوم: اس نے قوم سے فلاں کا انتخاب کیا اور اس کی روش پر چلا۔ جشمة و اجشمة. الامر: کوئی کام کرنے کی تکلیف دینا۔ "مهما تجشمني فانی جاشم" جس کا تو مجھ کو حکم دے گا میں کروں گا۔ الجشم و الجشم: بوجھ۔ بھاری کام۔ کہا جاتا ہے "القى على جشمه" اس نے	میرے اوپر اپنا بوجھ ڈال دیا۔ من البعير: سینہ۔ الجشم و الجشم: موٹا۔ بھاری۔ الجوشن: سینہ۔ زرہ۔ جوشن الليل: آدھی رات۔ جص (ض) جصا و جصیضا: سخت بندھ جانے کی وجہ سے کراہنا۔ جصص. البناء: گچ کرنا الجرو: آنکھیں کھولنا العنقود: پھوٹنا علی العدو: حملہ کرنا۔ إجنص و تجاص. القوم: قریب قریب اکٹھا ہونا۔ الجنص و الجنص: گچ۔ چونہ۔ الخصاص: گچ والا یا گچ بیچنے والا۔ الخصاصة: گچ بنانے کا کارخانہ۔ الجنیص: فریاد والہ۔ الجنیصة: پاس پاس رہنے والا گروہ۔ جص (ن) جصا. علیه بالسيف: حملہ کرنا۔ جعبه (ف) جعبا و جعبه تجعبیا و جعباء جعباء و جعباء: اٹ دینا۔ پچھاڑ دینا۔ جعب (الجعبه): ترکش بنانا۔ تجعب و التجعب و تجعبي: پچھاڑ جانا۔ تجعبي الجیش: کثرت کے ساتھ جمع ہونا۔ الجعبه: ترکش۔ ج جعباب۔ الاجعب: بڑے پیٹ والا جو کام کرنے میں مست ہو۔ مؤنث جعباء ج جعباء۔ ذیر۔ الجعباب: ترکش بنانے والا۔ الجعبانة: ترکش بنانے کا پیشہ۔ الجعبوب: پست قد بد شکل۔ ج جعباب۔ الجعبی و الجعبانة: حلقہ ذیر۔ المجعب: ہر ایک کو پچھاڑ دینے والا۔ ججع. البعير: بٹھانے یا اٹھانے کے لئے حرکت دینا۔ بٹھانا البعير: بیٹھنا۔ بالمغريم: سختی سے مطالبہ کرنا فی المكان: غیر مطمئن حالت میں بیٹھنا۔
--	---	--

تَجْفَعُ: رود کی وجہ سے زمین پر گر پڑنا۔

السَّجْفُ جَعْفَةٌ: مہس۔ اکٹھے ہونے والے اونٹوں کی آواز۔ جھکی کی آواز اور اسی سے مثل

ہے "السَّمْعُ جَعْفَعَةٌ وَلَا رَأْيَ طَخْنَا" یعنی کی آواز سنتا ہوں اور آنا دکھائی نہیں دیتا۔ اس شخص کے حق میں بولتے ہیں جو دھمکی تو دے اور پکڑ کر کے نہ دکھائے یا اس بخیل کے حق میں جو وعدہ تو کرے اور پورا نہ کرے۔

الجَعْفُ جَاعٌ: تنگ اور سخت جگہ۔ معرکہ جنگ۔ قحط زدہ زمین۔

جَعْفُدٌ (ك) جَعْفَاةٌ وَجَعْفُودَةٌ: الشَّعْرُ: گھٹکر یا لے ہونا۔

جَعْفُدُ الشَّعْرُ: گھٹکر یا لے بنانا۔

تَجَعْفُدُ الشَّعْرُ: گھٹکر یا لے ہونا۔ وَتَجَعْفُدُ الشَّيْءُ: سبک کرنا۔

الجَعْفُدُ مِنَ الشَّعْرِ: گھٹکر یا لے کہا جاتا ہے "هُوَ جَعْفُدُ الْبِدْ" وہ بخیل ہے۔ "وَجَعْفُدُ الْقَفْصَا" جس کے حسب میں کھوٹ ہو۔ ج

جَعْفَادٌ: تِرابٌ جَعْفَدٌ: نَمْنَمٌ مِثْلِيٌّ وَجَنَّةٌ جَعْفَدٌ: کم ملاحظت والا گول چہرہ۔ زَيْدٌ جَعْفَدٌ: تہہ بر تہہ مہکن۔ (ابو جَعْفَدُہ و ابو جَعْفَادَةُ (ابو جَعْفَادَةُ): بھیڑیے کی کنیت۔

الْجَعْفَدَةُ: موسم بیماری کی خوشبودار انگوری جو کہ جلدی خشک ہو جاتی ہے۔

جَعْفَرٌ (ف) جَعْفَرٌ وَانْجَعْفَرُ: السَّعْيُ: پاتا نہ کرنا۔

تَسْجَعْفَرُ: کتوئیں میں گرنے کے خوف سے کمر میں رتی باندھنا۔

الْجَعْفَرُ: مہس۔ درندے کا پانا نہ۔ جَعْفُورٌ: السَّجْعَارُ: رتی جس کو کتوئیں میں اترنے کے وقت کمر سے باندھ لیں اور اس کا دوسرا کنارہ کسی کھونٹے سے تاکہ گرنے سے محفوظ رہیں۔

جانور کی دانوں کے داغ۔

جَعْفَارٌ: بَرْدٌ وَنَقْطَامٌ وَ (ابو جَعْفَارٍ وَ أُمُّ جَعْفَارٍ): بچو۔

أَبُو جَعْفَرَانَ: گہریلا۔

أُمُّ جَعْفَرَانَ: بڑا گدھ۔

السَّجَاعِرُ قَانٌ: ذُووُلٌ رَانَ كَمَا وَصَفْتُمْ جِبَالًا بِرُؤْمٍ يَلَانُ فِيهَا تَبْتِجِي بِهِيَ۔

الجَعْفَرَاءُ وَ الْمَجْفَرُ: ذُبُرٌ۔

جَعْفَسَ (ف) جَعْفَسًا: الرَّجُلُ: پانا نہ کرنا۔ تَجَعَّفَسَ: گھسن کھانا۔ فُشٌّ كِبَانٌ۔

جَعِظَ (س) جَعْفَظًا: غَضَبٌ تَاكٌ وَبِدْعَلُقٌ ہونا۔ صَفَتٌ جَعْفُظٌ وَجَعِظٌ۔

جَعْفَظَةٌ (ف) جَعْفَظًا وَ أَجْفَظُهُ: دُفْعٌ كَرْنَا۔ بَنَانًا۔ جَعْفَفَةٌ (ن) جَعْفَفًا وَ أَجْفَفُهُ: بَچھا کرنا۔

جَعْفَفَ وَ اجْتَعْفَفَ: الشَّجَرَةُ: جِزْرٌ سَاخِرٌ كَرْنَا۔ اِنْجَعْفَفَتِ: الشَّجَرَةُ: جِزْرٌ سَاخِرٌ كَرْنَا۔

سَيْلٌ (جَاعِيفٌ وَ جُعَافٌ): تَمَامٌ جِيزُولٌ كُوْبَهَا لَمَّا جَاءَ وَ الْاَسْبَابُ۔

السَّجْفُ جَعْفٌ: مہس۔ تھوڑی روزی جس سے کچھ نہ بچ سکے۔

الْجَعْفُورُ: نالہ۔ ندی۔ بہت دودھ والی اُونٹنی۔ جَعْفُلٌ جَعْفَلَةٌ: زَبَنٌ سَاخِرٌ كَرْنَا۔

جَعَلَ (ف) جَعْلًا: بَنَانًا۔ پید کرنا۔ جیسے "جَعَلَ اللّٰهُ الظُّلُمَاتِ" رکھنا۔ تبدیل کرنا۔ جیسے "جَعَلَ الْحَسَنَ قَبِيْحًا" گمان کرنا جیسے "جَعَلَ الْحَقُّ بِاطْلَا" اس نے حق کو باطل گمان کیا۔ مقرر کرنا جیسے "جَعَلَهُ حَاكِمًا" اس نے اسے حاکم مقرر کیا۔ لہ کَذَا عَلٰی كَذَا: شرط یا نہ حنا۔ شروع کرنا۔ جیسے "جَعَلَ يَكْتُبُ" وہ لکھنے لگا اور دینے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جیسے "اَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ" مجھ کو نیک نامی دے۔

جَعَلَ (س) جَعْلًا: الْمَاءُ: پانی میں کیڑوں کی کثرت ہو جانا۔ الْعِلَامُ: مونا کی کے ساتھ پست قد ہونا۔ الرَّجُلُ: جھگڑا ہونا۔

جَاعَلَةٌ مَجَاعَلَةٌ: رَشْوَةٌ دِيْنَا۔ اَجْعَلْ: لہ: مزدوری مقرر کرنا۔ الْمَاءُ: پانی میں کیڑوں کی کثرت ہونا۔ اَجْفَلُهُ جَعْلًا: مزدوری دینا۔

تَجَاعَلُوْا: الشَّيْءُ: آپس میں کر لینا۔ اَجْتَعَلَهُ: گھڑنا۔ الشَّيْءُ: بَنَانًا۔ لینا۔ تم کہتے ہو "جَعَلَهُ الشَّيْئًا جَعْتَلَهُ" اس نے اس کو ایک

چیز دی اور اس نے لے لی۔

الْجَعْلُ: گہریلا کی ایک قسم۔ جَعْلَانٌ: جَعْلَانٌ: سیاہ قام بد صورت مرد۔ یا جَعْلُوْا: جَسْمَانٌ: گھسان۔ جَعْلٌ: وہ پانی جس میں کیڑے بہت ہوں۔

السَّجْعَالُ جَعْلٌ وَ (الْجَعْلُ) جَعْلَانٌ وَ (السَّجْعَالُ) جَعْلَانٌ: بَتْلِيْثُ الْجَعْمِ وَ (السَّجْعَالُ) جَعْلَانٌ: جَعْلَانٌ: اَبْرَتٌ: مزدوری۔ جَنَكٌ: کرنے والے کا ونقشہ۔

السَّجْعَالُ: چولہے سے دیگ اُتارنے کا چھتھرا۔ صَائِيٌّ۔

السَّجْعَالُ: شتر مرث کا بچہ۔ جَعْمَهُ (ف) جَعْمًا: جانور کے منہ پر تھوٹھنی چڑھانا۔

جَعْمٌ وَ جَعْمٌ (س ف) جَعْمًا: کھانے کی خواہش نہ ہونا۔ کھانے کی خواہش کرنا۔ کہا جاتا ہے "جَعْمُ السِّيِّ اللّٰحْمِ" وہ گوشت کھانے کا بہت خواہش مند ہے۔ جَعْمٌ وَ تَسْجَعْمُ: الشَّيْءُ: طمع کرنا۔ صَفَتٌ (جَعْمٌ وَ جَعْمٌ) اَجْعَمُ: الشَّجَرُ: درخت کے سارے پتے چر لینا۔ الشَّيْءُ: جِزْرٌ سَاخِرٌ۔

الْجَعْمُ: بھوک۔

السَّجْعَمُ: بھوکا جو ہر چیز کو دیکھ کر کھانے کی خواہش کرے۔

السَّجْعَمُ: جانے پناہ۔

الْجَعْمُوسُ: گوبر۔

جَعْمَانٌ (ن) جَعْمَانٌ: البَعْرُ وَ نَحْوُهُ: ذُبُرٌ لَگاتا۔

الْجَعْفَةُ: جو کی شراب۔

السَّجْفُو: مہس۔ ہاتھوں سے جمع کیا ہوا زہر۔ کچڑ۔

الْجَعْفَرِيَّةُ: جَعْفَرِيَّةٌ۔

جَعْفٌ (ض) جَعْفًا وَ جَعْفُوفًا: خَشَكٌ ہونا صَفَتٌ (جَعْفٌ وَ جَعْفٌ) جَعْفٌ: جَعْفٌ: لَبْدَةٌ: یعنی اس نے اقامت اختیار کر لی اور سفر کرنا چھوڑ دیا۔

جَعْفٌ (ن) جَعْفًا: الْمَسَالُ: جمع کر کے لے کے چل دینا۔

چیز دی اور اس نے لے لی۔

الْجَعْلُ: گہریلا کی ایک قسم۔ جَعْلَانٌ: جَعْلَانٌ: سیاہ قام بد صورت مرد۔ یا جَعْلُوْا: جَسْمَانٌ: گھسان۔ جَعْلٌ: وہ پانی جس میں کیڑے بہت ہوں۔

السَّجْعَالُ جَعْلٌ وَ (الْجَعْلُ) جَعْلَانٌ وَ (السَّجْعَالُ) جَعْلَانٌ: بَتْلِيْثُ الْجَعْمِ وَ (السَّجْعَالُ) جَعْلَانٌ: جَعْلَانٌ: اَبْرَتٌ: مزدوری۔ جَنَكٌ: کرنے والے کا ونقشہ۔

السَّجْعَالُ: چولہے سے دیگ اُتارنے کا چھتھرا۔ صَائِيٌّ۔

السَّجْعَالُ: شتر مرث کا بچہ۔ جَعْمَهُ (ف) جَعْمًا: جانور کے منہ پر تھوٹھنی چڑھانا۔

جَعْمٌ وَ جَعْمٌ (س ف) جَعْمًا: کھانے کی خواہش نہ ہونا۔ کھانے کی خواہش کرنا۔ کہا جاتا ہے "جَعْمُ السِّيِّ اللّٰحْمِ" وہ گوشت کھانے کا بہت خواہش مند ہے۔ جَعْمٌ وَ تَسْجَعْمُ: الشَّيْءُ: طمع کرنا۔ صَفَتٌ (جَعْمٌ وَ جَعْمٌ) اَجْعَمُ: الشَّجَرُ: درخت کے سارے پتے چر لینا۔ الشَّيْءُ: جِزْرٌ سَاخِرٌ۔

الْجَعْمُ: بھوک۔

السَّجْعَمُ: بھوکا جو ہر چیز کو دیکھ کر کھانے کی خواہش کرے۔

السَّجْعَمُ: جانے پناہ۔

الْجَعْمُوسُ: گوبر۔

جَعْمَانٌ (ن) جَعْمَانٌ: البَعْرُ وَ نَحْوُهُ: ذُبُرٌ لَگاتا۔

الْجَعْفَةُ: جو کی شراب۔

السَّجْفُو: مہس۔ ہاتھوں سے جمع کیا ہوا زہر۔ کچڑ۔

الْجَعْفَرِيَّةُ: جَعْفَرِيَّةٌ۔

جَعْفٌ (ض) جَعْفًا وَ جَعْفُوفًا: خَشَكٌ ہونا صَفَتٌ (جَعْفٌ وَ جَعْفٌ) جَعْفٌ: جَعْفٌ: لَبْدَةٌ: یعنی اس نے اقامت اختیار کر لی اور سفر کرنا چھوڑ دیا۔

جَعْفٌ (ن) جَعْفًا: الْمَسَالُ: جمع کر کے لے کے چل دینا۔

بعض کو بعض پر کھنا..... القیل: لید کرنا۔

جَفَل (ن ض) جَفَلَا وَجَفَلُوا

وَجَفَلُوا وَجَفَلُوا..... البعير: بدکنا بھاننا

صفت جہائل و جفالی..... النعامة: بھاننا

..... السريخ: تیز چلنا۔ (.....) وَاَجْفَلُوا

وَتَجَفَلُوا القوم: تیز بھاننا۔

جَفَلَةٌ: بدکنا۔ بھگانا۔

تَجَفَلُوا: الديق: کلفی کو پھڑکانا۔

الجفيل: مصل۔ بادل جو پانی برس کر کھل

جائے۔ شتر مرغ جو ہر چیز سے بدکے۔ ہاتھی

کی لید۔ کشتی ج جفولہ۔

الجفيلة: من الشجر: بہت پتوں والا

درخت۔

الجفيلة: اُون کا گھرا۔

الجفيل: دودھ کی جھاگ۔ بہت اُون۔

سیلاب کا خس و خاشاک۔

الجفيلة: من القدر: ہانڈی کی جھاگ۔

ريح (جَفُول) جَفَلُوا (مُجَفَلٌ وَمُجَفَلٌ

وَمُجَفَلَةٌ: تیز ہوا جو بادل کو اُڑالے جائے۔

الجفيلي: دعوت عامہ۔ کہا جاتا ہے "ذُعی

فلان فی التقری لافى الجفيلي"۔ وہ

دعوت خصوصی میں بلایا گیا نہ دعوت عمومی

میں۔

الجفيل: بہت۔ زراعت کا اتنا بڑھا ہوا حصہ

جو کاٹ دیا جائے۔

الاجفيل: بڑول۔

الجفلق: بہت موٹی بڑھیا۔

جَفَن (ن) جَفَنُوا الناقة: زنج کر کے

بڑے پیالوں میں کھلاتا۔..... نفسه:

برائیوں سے روکنا۔ (.....) وَتَجَفَّنُ الكرم:

بڑ پکڑنا۔

الجفین: مصل۔ اوپر نیچے کا پودہ۔ نیام ج

أَجْفَانٌ وَجَفُونٌ وَاجْفَانٌ. الجفین: انگور کی

بڑ یا ٹہنیاں۔ واحد جفنة۔

الجفنة: بڑا پیالہ۔ وہ برتن جس میں شراب

پانی جائے۔ چھوٹا کواں ج جفن و جفان

و جففات۔

الجفاجف: ہیبت و لباس۔

جَفَج (ف ض) جَفَجُوا: تکبر کرنا۔ فخر کرنا۔

صفت (جَفَجَ)

جَفَجُوا: فخر کرنے میں مقابلہ کرنا۔

جَفَر (ن) جَفَرُوا وَتَجَفَّرُوا وَاسْتَجَفَّرُوا:

ولذ الشاة: بڑا ہونا اور بڑے پیٹ والا ہونا

..... الشی: کشادہ ہونا۔ جَفَر من المرض:

صحت یاب ہونا۔ جَفَر ما كان فيه: چھوڑنا۔

جَفَر صاحبه: قطع تعلق کرنا۔

الجفیر: مصل۔ کشادہ کنواں۔ ج جفاء: کہا جاتا

ہے "فلان مُنْهَذَمُ الجفیر" فلاں بے عقل

ہے "وَفَعَلْتُ ذَلِك من جَفَر او جَفَر

نكذا" میں نے اس کو اس کی وجہ سے کیا۔ علم

الجفیر: علم جفر ایک علم ہے جس میں اسرار

حروف سے بحث کی جاتی ہے۔

الجفيرة: من الشی: وسط۔ درمیان۔ من

الارض: گول کشادہ زمین۔

الجفیر: لکڑی کا ترش جس میں چمڑا نہ ہو یا

چمڑے کا جس میں لکڑی نہ ہو۔

الجفیری: شگوف خرم کا غلاف۔

المجفيرة: بے تعلقی کا سبب۔

جفیس (س) جَفَسُوا وَجَفَسَا: بدبھمی

ہونا۔

الجفس و الجفس و الجفیس: کمزور۔

لیٹیم۔ کمینہ۔

جَفَط (ن) جَفَطُوا: الاناء: بھرتا۔

اجفاط و اجفاط و اجفینطاطا. المقنول:

پھول جانا۔ صفت (جَفِيط)

جَفَع (ف) جَفَعُوا: پھیلاؤنا۔

جَفَل (ن) جَفَلُوا: الطائر: بھگانا۔ کہا جاتا

ہے۔ جفل القناص الوحش عن مراعيها

: شکاری نے وحشی جانوروں کو ان کی

چراگاہوں سے بھگانا..... البحر

السمک: کنارہ پر ڈال دینا..... السريخ

السحاب: اُڑالے جانا..... ہ: پھیلاؤ دینا

..... الطين: بیلچے سے کھرچ لینا..... المتاع:

جَفَفَهُ تَجَفَّفَهُ وَتَجَفَّفَا: خشک کرنا۔ جَفَف

الفرس: پاکھر پھاننا۔

تَجَفَّف: خشک ہونا۔

اجتفف. مافى النساء: برتن کا سب کچھ کھا

جانا۔

الجف و الجفنة و الجف و الجفنة: لوگوں کی

جماعت۔ بڑی تعداد۔ کہا جاتا ہے "جساء

القوم جفنة" ساری قوم آئی۔ الجف: کھوکھلی

تالی والی چیز۔ بوڑھا۔ کہا جاتا ہے "هو جف

مال" وہ مال کا منتظم ہے۔ الجفنة: بڑا ڈول۔

الجفف: سخت و خشک زمین۔

الجفيف: خشک گھاس۔

الجفاف: سوکھی ہوئی چیز۔

البيجفاف و التجفاف: برگستون۔ پاکھر۔ ج

تجافيف.

جفأ (ف) جفأ. النهي: جھاگ پھینکانا.....

القدر: ابلنا..... القدر: انڈیل دینا۔ جفأ

الرجل و جفأ به الارض: پٹک دینا۔

أجفأ. به: پٹک دینا۔ پھیلاؤ دینا..... الناقة: چلا

کر تھکا دینا..... الباب: بند کر دینا۔

أجفاف و تجففات. البلاد: بے برکت ہونا۔

جفت: (ترکی لفظ) جوڑا یا وہی دو

(پور) تالی بندوق کا نام۔

اجتفأ. الشی: اکھیر کر پھینکانا۔

جفتلك: (ترکی لفظ) جس کا معنی زرعی زمین

یا مزارعین کا سامان۔

الجفء: سیلاب کی خس و خاشاک۔ بے کار۔

بے فائدہ۔ کہا جاتا ہے "ذهب جفء"

رایگاں گیا۔

جفف جف. الابل: تیزی سے ہانکنا کہ ایک

دوسرے کے اوپر چڑھنے لگیں۔

تجفف جف. الطائر: اٹنے سے بنا۔

الثوب: خشک ہونا اور کچھنی باقی رہ جانا۔

الجفف جف: بلند زمین۔ پست زمین۔ بہت

بے ہودہ کئے والا۔

الجفف جفنة: نئے کپڑے کی آواز۔ جفف جفنة

السموكب: سواروں یا پیادوں کے چلنے کی

جَفَاءً يَجْفُوا جَفَاءً وَجَفَاءً: ایک جگہ ہر نہ
 ٹھہرنا..... غَلِيْبُهُ كَذَا: گراں ہونا.....
 الثوبُ: موٹا ہونا۔ جنبہ عن الفراء: قرار
 نہ پانا۔
 جَفَا (ن) جَفُوا وَجَفَاءً وَجَفَا: صاحبہ
 اعراض کرنا۔ بدسلوکی سے پیش آنا۔
 تَجَافَى: عن مكانه: قرار نہ پانا۔
 جَفَاءً: بد اخلاق بنا دینا۔
 جَافَى: الرجلُ: بدسلوکی سے پیش آنا۔ دور
 رکھنا۔
 أَجْفَى: النخيلُ: سخت سخت لینا اور کھانے کو نہ
 دینا..... فَلَانًا: شدور کرنا۔
 تَجَافَى: عليه: ہونا۔ الگ ہونا۔ کہا جاتا ہے
 "تَجَافَى السَّرِجُ عَنْ ظَهْرِ الْفَرَسِ": زین
 گھوڑے کی پیٹھ سے ہٹ گئی۔ "وَتَجَافَى
 جَنْبَهُ عَنِ الْفَرَسِ": اس کا پہلو بچھونے سے
 دور رہا۔
 اجْتَفَى: الشئُ: جگہ سے ہٹانا۔ دور کرنا۔
 اسْتَجَفَى: اسْتَجَفَاءً: الشئُ: بدسلوکی سمجھنا
: دوری چاہنا۔
 الجَفْوَةُ وَالجَفْوَةُ: اجڈ پن۔ بدسلوکی۔
 الجَافِي: موٹا۔ جَافِي الخلقُ: اجڈ بد اخلاق
 ج جَفَاة: مَوْنٌ: جَافِيَةٌ ج جَافِيَاتِ
 وَجَوَابٍ.
 جَفَى (ض) جَفِيًا: الرَّجُلُ: بچھاڑ دینا۔
 (.....) وَاجْتَفَى: النباتُ: بڑے سے اکھیرنا۔
 جَقَّ (ن) جَقًّا: الطائرُ: بیٹ کرنا۔
 الحِقَّةُ: بڑھیا اُونٹنی۔
 جَجِكُو (س) جَجِكُوا وَاجْجَكُوا: بیچنے میں
 اصرار کرنا۔
 الجَجْكَةُ: حاجت۔
 الجَجْكِيَّةُ: لوہے پر لوہا گرنے کی جھنکار۔
 جَلَّ (ض) جَلَلًا وَجَلَالًا: بڑے مرتبہ والا
 ہونا۔ تم کہتے ہو "جَلَّ فَلَانٌ فِي عَيْنِي":
 فلاں میری نظر میں عظیم المرتبہ ہو گیا۔ تم میں
 بڑا ہونا۔ عمر میں بڑا ہونا۔ صفت (جَلِيلٌ) ج
 أَجْلَاءُ. وَأَجْلَةٌ وَجَلَّةٌ وَجَلَّةٌ وَجَلَّةٌ

وَجَلَالٌ وَجَلَالٌ)
 جَلَّ وَتَجَلَّى: عن كَذَا: اپنے کو بالا و برتر
 سمجھنا۔ تَجَلَّى عَلَيْهِ: بڑا بننا۔ (جَلَّ
 جَلًّا وَجَلَّلًا)
 الفرسُ: جموں ڈالنا۔
 جَلَّ (ن ض) جَلُّوْا وَجَلَلًا: اپنے وطن سے
 دوسرے شہر کو چلا جانا۔ صفت (جَمَالٌ) ج
 جَالَةٌ.
 جَلَّ (ن ض) جَلًّا وَجَلَّةً وَوَجَلَّتْ: البقرُ:
 بیٹنی چھنا..... الشئُ: بڑے حصہ کو لینا۔
 جَلَّلَ: الشئُ: عام ہونا..... الشئُ: ذہانت
 لینا اور اسی سے ہے "جَلَّلَ الْمَطَرُ الْأَرْضَ"
 بارش نے زمین کو ڈھانپ لیا۔ الرجلُ: تعظیم
 کرنا۔
 أَجَلَّةٌ إِجْلَالًا: تعظیم کرنا۔ عن العيبُ: پاک
 کرنا..... الرَّجُلُ: قومی ہونا۔ کمزور ہونا۔
 عَمَزَ وَزَيْدًا: بہت دینا۔ کہا جاتا ہے "اتيت
 فَلَانًا فَمَا احْلَيْتِي وَمَا دَقَيْتِي": میں فلاں کے
 پاس آیا تو اس نے مجھے زیادہ دیا نہ تھوڑا۔
 تَجَلَّلَ: بڑا ہونا..... بالشوبُ: اوڑھنا۔
 تَجَلَّلَهُ: غالب ہونا۔
 الجَلُّ: بمص - چینیلی - سفید - سرخ - زرد۔
 گلاب کا پھول۔ واحد جَلَّةٌ: بادبان۔ ج
 جَلُولُ.
 الجَلُّ وَالجَلُّ: جموں۔ ج جَلَالٌ وَاجْلَالٌ.
 جَلَّ الشئُ: چیز کا بڑا حصہ۔ جَلَّ الْبَيْتُ: وہ
 جگہ جہاں خیر نہ نصب کیا جائے۔ وَالْجَلُّ:
 موٹا۔ بھاری۔ کہا جاتا ہے "فَعَلَهُ مِنْ
 جَلِّكَ": اس نے اس کو تیری وجہ سے کیا۔
 الجَلُّ: بہت۔ کہا جاتا ہے "مَأَلَهُ دِقُّ
 وَلَا جَلَّ": اس کے پاس نہ کم ہے نہ بہت.....
 مِنَ الْمَتَاعِ: فرش بچھونا۔ چادر وغیرہ۔ وجَلَّ
 جَلَّ: مرد بزرگ۔
 أَصْرُ (جَلَّلٌ): بڑا معاملہ۔ آسان معاملہ۔ کہا
 جاتا ہے "فَعَلْتَهُ مِنْ جَلِّكَ وَمِنْ
 أَجْلَالِكَ وَمِنْ تَجَلِّكَ": میں نے تمہاری
 وجہ یا تمہاری تعظیم کی وجہ سے یہ کیا۔

الْجَلَّةُ: بتلث الجيم: بیٹنی اور کہا جاتا ہے
 "قوم جَلَّةٌ": بڑے لوگ۔ یہ جلیل کی جمع
 ہے۔
 الْجَلَّةُ: بڑا نوکرا۔ ج جَلَالٌ وَجَلَّلٌ.
 الْجَمَالَةُ: وہ لوگ جو اپنے وطن سے چلے گئے
 ہوں۔
 الْجَمَلِيُّ: الاجلُّ كَامَوْثٌ: بڑا معاملہ۔ امر
 عظیم الشان۔ ج جَلَّلٌ.
 التَّجَلُّةُ: عظمت و بزرگی۔
 الْمَجَلَّةُ: رسالہ۔ کا پی۔
 الْجَلَالَةُ: پلیدی کھانے والی گائے۔
 الْمُجَلَّلُ: فَا. سحاب مُجَلَّلٌ: عام بارش
 والا بادل۔ امر مُجَلَّلٌ: عام معاملہ۔
 جَلَاه (ف) جَلَا وَجَلَا وَجَلَالًا: بچھاڑ
 دینا۔ چک دینا۔ جَلَاهُ بِالثوبِ: بھینکنا۔
 جَلَبَهُ (ن ض) جَلَبًا وَجَلَبًا: ہانک کر لانا۔
 الرَّجُلُ: جانا۔ الْجَرْحُ: اچھا ہونا۔
 (.....) وَأَجْلَبَ: القومُ: جمع کرنا۔ جَلَبَهُ
 وَأَجْلَبَهُ: دھکانا۔ جَلَبَ وَأَجْلَبَ: لاهلہ:
 کمانا۔ جَلَبَ وَأَجْلَبَ: على الفرسِ: چلا کر
 آگے بڑھنے پر اکسانا۔ جَلَبَ وَأَجْلَبَ
 الدَّمُ: خشک ہونا۔ جَلَبَ وَأَجْلَبَ: القومُ:
 شور و غوغا کرنا۔
 جَلَبَ (س) جَلَبًا: اکٹھا ہونا۔
 جَلَبَ (ن) جَلَبًا: عَلَيْهِ: گناہ کرنا۔
 جَلَبَ: القومُ: بچھنا چلا لانا۔ على الفرسِ:
 ڈانٹنا (.....) وَأَجْلَبَ: القومُ: ہر طرف سے
 جنگ کے لئے اکٹھا ہونا۔
 إِجْلَبَ: جانا۔
 إِجْلَبَهُ: لانا۔
 الْجَلَّةُ: کسی اگوری کا تاج جو کہ دست آور ہوتا
 ہے۔
 اسْتَجْلَبَهُ: کسی چیز کو حاصل کرنا۔ یا سبب بن
 جانا۔
 الجَلَبُ: بمص - گناہ۔ جرم۔
 الجَلَبُ: بمص۔ مال جو ایک شہر سے دوسرے
 شہر میں لے جائیں۔ ج أَجْلَابُ (وَالجَلْبِيَّةُ)

شور و غوغا۔ الجُلْب: بے پانی کا بادل۔ بادل جو پہاڑ کی طرح دکھائی دے۔ رات کی تاریکی۔ جُلْب الرُّوحل و جلْبہ: کجاوہ کی کٹڑیاں۔ الجُلْبِيَّة: کھرڈ۔ پتھر جو تہ بہ تہ ہوں جس میں جانوروں کے لئے راستہ باقی نہ رہے۔ گھاس کے متفرق قطعے۔ سبز کانٹے دار درخت۔ بادل کا ٹکڑا۔ چڑا جو پالان پر لگایا جائے۔ جُلْبِيَّة الشتاء: سردی کی شدت۔ رَج جُلْب۔	لٹکانا۔ تَجَلَّجَلْت: قواعدُ البيت: بل جاتا۔ تَجَلَّجَل فِي الارض: گھٹنا..... الامرُ فِي نفسه: دل میں کسی خیال کا آنا۔ الجَلَّجِل: گھونگھرو۔ واحد (جُلَّجِل) جَلَّجِل النفس: وہ خیالات جو دل میں آئیں۔ تم کہتے ہو "بَشَّه جَلَّجِل نفسي" میں نے اس سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ الجُلَّجِل وَالجَلَّجِل: پھر تیرا۔ چابک دست۔ الجَلَّجِلَة: مَص۔ بادل کی گرج۔ گھنٹی کی آواز۔ الجُلَّجَلَان: دو حسینے کے دانے۔ تل کا دانہ۔ جُلَّجَلَان الشئ: بڑی چیز۔ جُلَّجَلَان القِب: سویداء قلب۔ کہتے ہیں "خروج من جُلَّجَلَان القلب الی قمع الاذن": یعنی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ الجُلَّجِل: بڑا سردار یا وہ شخص جس کی آواز دور تک جائے۔ گرجنے والا بادل۔ بے عیب ظریف۔ وعدةُ جُلَّجِل: بڑی تعداد۔ جَلَّحْت (ف) جَلَّحَا: الماشية الشجر: اوپر کے حصے کو چر جاتا۔	شور و غوغا۔ الجُلْب: بے پانی کا بادل۔ بادل جو پہاڑ کی طرح دکھائی دے۔ رات کی تاریکی۔ جُلْب الرُّوحل و جلْبہ: کجاوہ کی کٹڑیاں۔ الجُلْبِيَّة: کھرڈ۔ پتھر جو تہ بہ تہ ہوں جس میں جانوروں کے لئے راستہ باقی نہ رہے۔ گھاس کے متفرق قطعے۔ سبز کانٹے دار درخت۔ بادل کا ٹکڑا۔ چڑا جو پالان پر لگایا جائے۔ جُلْبِيَّة الشتاء: سردی کی شدت۔ رَج جُلْب۔ الجُلْبِيَّة: لایا ہوا۔ کھینچا ہوا۔ کہا جاتا ہے "عَبْد جُلْبِيَّة": زرخیز غلام۔ رَج جُلْبِيَّة و جُلْبِيَّة و جُلْبِيَّة: امراة جُلْبِيَّة و جُلْبِيَّة: کہیں سے لائی ہوئی عورت۔ رَج جُلْبِيَّة و جُلْبِيَّة۔ الجُلْبُونَة: اونٹ جس پر سامان کو لادا جائے۔ الجُلْبَاب: غلاموں کو تجارت کے لئے ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانے والا۔ الجُلْبَاب وَالجُلْبَاب: گلاب اور شکر یا شہد کا بنا ہوا شربت۔ گلاب کا عرق۔ الجُلْبَان: مٹر۔ چڑے کا تھیلا اور کہا جاتا ہے "رجل جُلْبَان و جُلْبَان": شور مچانے والا مرد۔ الجُلْبَاب وَالْمُجَلَّب: بدخلق بے ہودہ گو۔ شور مچانے والا۔ الجُلْبَان: گھاس کی طرح انگوری اس کی کئی اقسام دانے اور چارہ کے لئے ہوتی ہیں اور کچھ پھولوں کے لئے ہوتی ہیں۔ الْمَجْلَبَة: کسی چیز کے حاصل کرنے کا سبب باعث۔ جُلْبِيَّة: چادر یا قمیص پہنانا۔ تَجَلَّب: چادر یا قمیص پہننا۔ الجُلْبَاب وَالجُلْبِيَّة: چادر یا قمیص رَج جُلْبِيَّة۔ جَلْبَتَه (ض) جَلْبَتَا وَاَجْلَبَتَا: مارنا۔ جَلَّجِل: السَّرْجُل: زور سے بولنا..... السَّحَاب: گرجنا۔ جَلَّجَلَة: حرکت دینا۔ جَلَّجِل الوتر: مضبوط ہونا۔ البعير: جانچھ
الجَلَّحَة: سر کے دونوں جانب بال گرنے کی جگہ۔ الجَلَّح: سخت سیلاب۔ أَرْض (جَلَّحَاء): بغیر درخت والی زمین۔ بقرة جَلَّحَاء: بے سینک والی گائے۔ قربة جَلَّحَاء: بے قلعہ والی آبادی۔ سَطْوَح جَلَّحَاء: بغیر پردہ کی دیوار والی چھتیں۔ سَنَة (جَلَّحَة): خشک سال۔ رَج جَلَّح: السَّجْوَالِح: وہ چیز جو باس کے اندر سے روئی کی مانند نکل کر اڑتی ہے۔ برف کے ٹکڑے جو ایک دوسرے پر گریں۔ السَّجَالِح: فا۔ شیرہ..... والسَّجَالِح وَالْمُجَلَّحَة: جاڑے میں دودھ دینے والی اونٹنی۔ رَج السَّجَالِح: قحط جس میں مویشی وغیرہ برباد ہو جائیں۔ السَّجَالِح: بہت کھانے والا۔ جَلَّخ (ف) جَلَّخَا: السيل الوادي: بھر دینا۔ دونوں طرف کے کناروں کو کاٹ دینا..... الشئ: کھینچنا۔ دراز کرنا۔ پہ: پچھاڑنا..... جَلَّخَه بالسيف: گوشت میں سے کچھ کاٹ لینا..... و جَلَّخ (الموسى): تیز کرنا۔ صیقل کرنا۔ (مولد)	الجَلَّحَة: سر کے دونوں جانب جگہ۔ الجَلَّح: سخت سیلاب۔ أَرْض (جَلَّحَاء): بغیر درخت والی زمین۔ بقرة جَلَّحَاء: بے سینک والی گائے۔ قربة جَلَّحَاء: بے قلعہ والی آبادی۔ سَطْوَح جَلَّحَاء: بغیر پردہ کی دیوار والی چھتیں۔ سَنَة (جَلَّحَة): خشک سال۔ رَج جَلَّح: السَّجْوَالِح: وہ چیز جو باس کے اندر سے روئی کی مانند نکل کر اڑتی ہے۔ برف کے ٹکڑے جو ایک دوسرے پر گریں۔ السَّجَالِح: فا۔ شیرہ..... والسَّجَالِح وَالْمُجَلَّحَة: جاڑے میں دودھ دینے والی اونٹنی۔ رَج السَّجَالِح: قحط جس میں مویشی وغیرہ برباد ہو جائیں۔ السَّجَالِح: بہت کھانے والا۔ جَلَّخ (ف) جَلَّخَا: السيل الوادي: بھر دینا۔ دونوں طرف کے کناروں کو کاٹ دینا..... الشئ: کھینچنا۔ دراز کرنا۔ پہ: پچھاڑنا..... جَلَّخَه بالسيف: گوشت میں سے کچھ کاٹ لینا..... و جَلَّخ (الموسى): تیز کرنا۔ صیقل کرنا۔ (مولد)	الجُلْبَاب وَالْمُجَلَّب: بدخلق بے ہودہ گو۔ شور مچانے والا۔ الجُلْبَان: گھاس کی طرح انگوری اس کی کئی اقسام دانے اور چارہ کے لئے ہوتی ہیں اور کچھ پھولوں کے لئے ہوتی ہیں۔ الْمَجْلَبَة: کسی چیز کے حاصل کرنے کا سبب باعث۔ جُلْبِيَّة: چادر یا قمیص پہنانا۔ تَجَلَّب: چادر یا قمیص پہننا۔ الجُلْبَاب وَالجُلْبِيَّة: چادر یا قمیص رَج جُلْبِيَّة۔ جَلْبَتَه (ض) جَلْبَتَا وَاَجْلَبَتَا: مارنا۔ جَلَّجِل: السَّرْجُل: زور سے بولنا..... السَّحَاب: گرجنا۔ جَلَّجَلَة: حرکت دینا۔ جَلَّجِل الوتر: مضبوط ہونا۔ البعير: جانچھ
القروي: حقائق قلعوں کا باقی نہ رہنا۔ جُلَّحْت: الشجرة: اوپر سے کھایا جاتا..... الارض: گھاس کا چر جانا۔ جَلَّخ: على الشئ: سخت پیش قدمی کرنا..... في الامر: پختہ ارادہ کرنا۔ السبع على القوم: حملہ کرنا۔ جَلَّحْت الماشية الشجر: اوپر سے چرنا۔ جَلَّحَة: کھلم کھلا دشمنی کرنا۔ جالح بالشئ: کھلم کھلا کرنا۔	الجَلَّحَة: سر کے دونوں جانب جگہ۔ الجَلَّح: سخت سیلاب۔ أَرْض (جَلَّحَاء): بغیر درخت والی زمین۔ بقرة جَلَّحَاء: بے سینک والی گائے۔ قربة جَلَّحَاء: بے قلعہ والی آبادی۔ سَطْوَح جَلَّحَاء: بغیر پردہ کی دیوار والی چھتیں۔ سَنَة (جَلَّحَة): خشک سال۔ رَج جَلَّح: السَّجْوَالِح: وہ چیز جو باس کے اندر سے روئی کی مانند نکل کر اڑتی ہے۔ برف کے ٹکڑے جو ایک دوسرے پر گریں۔ السَّجَالِح: فا۔ شیرہ..... والسَّجَالِح وَالْمُجَلَّحَة: جاڑے میں دودھ دینے والی اونٹنی۔ رَج السَّجَالِح: قحط جس میں مویشی وغیرہ برباد ہو جائیں۔ السَّجَالِح: بہت کھانے والا۔ جَلَّخ (ف) جَلَّخَا: السيل الوادي: بھر دینا۔ دونوں طرف کے کناروں کو کاٹ دینا..... الشئ: کھینچنا۔ دراز کرنا۔ پہ: پچھاڑنا..... جَلَّخَه بالسيف: گوشت میں سے کچھ کاٹ لینا..... و جَلَّخ (الموسى): تیز کرنا۔ صیقل کرنا۔ (مولد)	الجُلْبَاب وَالْمُجَلَّب: بدخلق بے ہودہ گو۔ شور مچانے والا۔ الجُلْبَان: گھاس کی طرح انگوری اس کی کئی اقسام دانے اور چارہ کے لئے ہوتی ہیں اور کچھ پھولوں کے لئے ہوتی ہیں۔ الْمَجْلَبَة: کسی چیز کے حاصل کرنے کا سبب باعث۔ جُلْبِيَّة: چادر یا قمیص پہنانا۔ تَجَلَّب: چادر یا قمیص پہننا۔ الجُلْبَاب وَالجُلْبِيَّة: چادر یا قمیص رَج جُلْبِيَّة۔ جَلْبَتَه (ض) جَلْبَتَا وَاَجْلَبَتَا: مارنا۔ جَلَّجِل: السَّرْجُل: زور سے بولنا..... السَّحَاب: گرجنا۔ جَلَّجَلَة: حرکت دینا۔ جَلَّجِل الوتر: مضبوط ہونا۔ البعير: جانچھ
جَلَّحَة: کھلم کھلا دشمنی کرنا۔ جالح بالشئ: کھلم کھلا کرنا۔	الجَلَّحَة: سر کے دونوں جانب جگہ۔ الجَلَّح: سخت سیلاب۔ أَرْض (جَلَّحَاء): بغیر درخت والی زمین۔ بقرة جَلَّحَاء: بے سینک والی گائے۔ قربة جَلَّحَاء: بے قلعہ والی آبادی۔ سَطْوَح جَلَّحَاء: بغیر پردہ کی دیوار والی چھتیں۔ سَنَة (جَلَّحَة): خشک سال۔ رَج جَلَّح: السَّجْوَالِح: وہ چیز جو باس کے اندر سے روئی کی مانند نکل کر اڑتی ہے۔ برف کے ٹکڑے جو ایک دوسرے پر گریں۔ السَّجَالِح: فا۔ شیرہ..... والسَّجَالِح وَالْمُجَلَّحَة: جاڑے میں دودھ دینے والی اونٹنی۔ رَج السَّجَالِح: قحط جس میں مویشی وغیرہ برباد ہو جائیں۔ السَّجَالِح: بہت کھانے والا۔ جَلَّخ (ف) جَلَّخَا: السيل الوادي: بھر دینا۔ دونوں طرف کے کناروں کو کاٹ دینا..... الشئ: کھینچنا۔ دراز کرنا۔ پہ: پچھاڑنا..... جَلَّخَه بالسيف: گوشت میں سے کچھ کاٹ لینا..... و جَلَّخ (الموسى): تیز کرنا۔ صیقل کرنا۔ (مولد)	الجُلْبَاب وَالْمُجَلَّب: بدخلق بے ہودہ گو۔ شور مچانے والا۔ الجُلْبَان: گھاس کی طرح انگوری اس کی کئی اقسام دانے اور چارہ کے لئے ہوتی ہیں اور کچھ پھولوں کے لئے ہوتی ہیں۔ الْمَجْلَبَة: کسی چیز کے حاصل کرنے کا سبب باعث۔ جُلْبِيَّة: چادر یا قمیص پہنانا۔ تَجَلَّب: چادر یا قمیص پہننا۔ الجُلْبَاب وَالجُلْبِيَّة: چادر یا قمیص رَج جُلْبِيَّة۔ جَلْبَتَه (ض) جَلْبَتَا وَاَجْلَبَتَا: مارنا۔ جَلَّجِل: السَّرْجُل: زور سے بولنا..... السَّحَاب: گرجنا۔ جَلَّجَلَة: حرکت دینا۔ جَلَّجِل الوتر: مضبوط ہونا۔ البعير: جانچھ

الجلدة، اليه يجتأج تبتانا۔ مجبور کرنا۔

تجلد: صبر و استقامت ظاہر کرنا۔

تجادلوا واجتلدوا، بالسيف: تلوار سے

مارنا۔ اجتلد الاناء: ساراپی جانا۔

الجلد: مص۔ مضبوط۔ قوی ج اجلاد:

مؤنث جلد۔ واجلاد الانسان و

(تجالیده): جسم و اعضاء تم کہتے ہو "مااشبه

اجلاد فلان باجلاد امیہ": فلان کے اعضاء

اس کے باپ کے اعضاء سے کس قدر مشابہ

ہیں۔

الجلد: مص۔ آسمان یا نیا انگنبد کھال

(والجلدة): سخت زمین۔

الجلد: کھال۔ ج اجلاد و جلدود

والجلدة: کھال کا ٹکڑا یا کھال کی قسم۔ ج

جلد: کہا جاتا ہے "هم من جلدتنا": وہ

لوگ اپنے ہی مشابہ ہیں۔

الجلید: قوت والا۔ صابر۔ چالاک ج

جلدء جلاد و جلد: التجلید: پالا۔

الجلاد: بڑے بڑے سخت کھجور کے درخت۔

بہت دودھ والی اونٹنیاں۔

الجلاد: کوڑے سے مارنے والا۔ تلوار سے

مارنے والا۔ مزا دینے والا۔ کھال پیچنے

والا۔

المجخلد والمجلاذ: پھڑے کا ٹکڑا جس کو

نود کرنے والی عورت اپنے من پر مارا کرتی

ہے۔ کوڑا۔ ج مجالد و مجالید:

المجلدة: کوڑا۔

اعظم (مجلد): صرف کھال لگی ہڈی۔

فروس مجلد: کوڑا مارنے سے نہ چونکنے والا

گھوڑا۔

اجلوذ اجلوذا: تیز جانا۔ اللیل: لمبی ہونا

یا تم ہونا۔ بہم السیر: تیزی کے ساتھ

چلنا۔ المطر: زمانہ بارش کے اختتام کے

بعد تک برستار ہونا۔

الجلد: چھوٹا۔ ج مساجد۔ من غیر

لفظہا۔

راہب۔ کارگر۔ ج جلاذی۔ الجلاذی

والجلوذ: قوی موٹا اونٹ۔

جلز (ش) جلزوا: الراس: پی ہاندرہنا۔

الشی الی الشی: ملانا (..... و جلز)

السکین: دست ہاندرہنا۔ و جلز الرجل: تیز

جانا۔

تجلز: الامر: آمادہ ہونا۔ مستعد ہونا۔

جلوز: بین یدی الامیر: امیر کے سامنے

آنے جانے میں چستی دکھانا۔

جلز: السنان: بھالے کے نیچے کا گول حلقہ۔

الجلز: کوڑے کے کنارے پر بندھا ہوا

تسم۔ ج جلاز۔

الجلوذة: آدورفت میں چستی۔

الجلواز: سپاہی۔ بادشاہ کے سامنے تیز تیز

چلنے والا۔ ج جلاوذة:

الجلوز: بڑے جسم والا بہادر۔ جلفوزہ۔

المجلوز: مضبوط۔ کہا جاتا ہے "فلان

مجلوز العمل": فلان کام میں مشتاق ہے۔

جلس (ش) جلوسا و مجلسا: بیٹھنا۔

صفت جالس ج جلوس و جلوس:

جالسہ مجالسہ: ساتھ بیٹھنا۔

جلسہ و مجلسہ: بیٹھنا۔

تجالسوا: فی المحاکم: عدالتوں میں

بیٹھنا اور بحث کرنا۔

استجلسہ: بیٹھنے کو کہنا۔

الجلسة: المجلسوس کا اسم مرۃ۔ ایک

بیٹھک۔

الجلسة: بیٹھنے والے کی بیٹ۔

الجلس: بڑی اور سخت چٹان۔ بلند زمین

جمل جلس: مضبوط اونٹ۔ ناقہ جلس:

مضبوط اونٹنی۔ شہد جلس: گاڑھا شہد۔

الجلیس ج جلساء و جللاس۔ (الجلس)

والجلیس): ہم نشین۔

الجلسة: بہت بیٹھنے والا۔

المجلس: بیٹھنے کی جگہ۔ بیٹھنے والے لوگ

کچھری۔

مجلس الثواب: پارلیمنٹ۔ مجلس شوریٰ۔

مشورہ منشی۔ مجلس الشیوخ: ایوان بالا۔

المجلس البلیدی: کارپوریشن کی یونین۔

المجلسة: بیٹھنے کی جگہ۔

جلط (ش) جلطاً: قسم کھانا اور جھوٹ بولنا

..... الراس: موٹنا۔ السیف: موٹنا۔

الجلد: کھال آتارنا۔ بسلحه: بیٹ کرنا۔

الجلط: البعیر: تیز چلنا۔ الشی: پراتا۔

ہونا ٹھس ہونا۔

خالطہ: باہم کر کرنا۔

اجتلطہ: اچک لینا۔ صافی الاناء: صیب

پنی جانا۔

الجلطہ: خون بست یا دی کی تھوڑی مقدار۔

امراة (جلطو): بے حیاء عورت۔

جلع (س) جلغاً: لبوں کے نہ لٹنے کی وجہ

سے کھلے ہوئے دانتوں والا ہونا۔ صفت

(جلع و اجلع) مؤنث جلغۃ جلغاء۔

جلعت (ف) جلوغاً: المرأة: بے حیاء

ہونا۔ صفت (جلع و جلغۃ)

جلع: القوم: جگڑا کرنا۔ فحش باتیں کرنا۔

اجلج الشی: کھانا۔

الجلع: کھلے ہوئے چہرے والی عورت بے

حیاء۔

الجلغۃ: بیٹھنے کے وقت دانت کھلنے کی جگہ۔

کہا جاتا ہے "فلان لطیف الجلغۃ"

الجلغم: بے حیاء۔

اجلعب و اجلغۃ: ہنسر پر دراز ہو جانا۔

الجلعد: سخت و مضبوط۔

الجلاعد: من الابل: مضبوط اونٹ۔ ج

جلاعد۔

جلغۃ (ف) جلغاً: بالسيف: بگڑے کر

دینا۔

جلغ: تلوار سے مقابلہ کرنا۔

جلغہ (ن) جلغاً: کھرچنا۔ کہا جاتا ہے

"جلغ الطین عن الحجر": اس نے منشی کو

پتھر سے کھرچ دیا۔ الظفر: جڑ سے اکھیرنا

..... ہ بالسيف: گوشت میں سے ٹکڑا کاٹ

لینا۔ ہ الدهر: تباہ کر دینا۔

جلف (س) جلفا و جلافة: اجده ہوتا۔ جلف: الویل امو الہیم: تباہ کرنا۔ تجلف: الاغزو کمزور ہونا۔ اجتلفة: جز سے اکھیرنا..... ہ الدھو: تباہ کرنا۔ السجلف: اکھڑ اور اجڈ۔ بے وقوف۔ خالی مڈکا۔ برتن بغیر سر کے دھڑ۔ روٹی کا کنارہ۔ ج الجلاف و جُلوف۔ السجلیف: کھڑ چاہوا۔ اکھڑ اور اجڈ۔ ظالم۔ مؤنث جلیفة: کہا جاتا ہے "اصابہم جلیفة عظیمة" ان کو سخت قحط سالی الاحق ہوئی جس نے ان کے مال کو تباہ کر دیا۔ ج جلاف و جُلَف و جُلَف: السجلاف: السجلاف: طغیانیاں۔ الجُلَفَة: بجز وغیرہ کا تراش۔ الجِلَفَة: خشک روٹی کا ٹکڑا۔ ج جلف۔ السجلفة و الجلفة: من القلم: زبان قلم۔ الجلاف: کار۔ کچر۔ الجلافی: بڑا ذول۔ السجلف: وہ شخص جس کا مال قحط سالی میں تباہ ہوا ہو۔ وہ چیز جس کا کچھ حصہ باقی ہو۔ جلفط و جلفظ: السفینة: کشتی کے درز بند کرنا۔ عوام قلفط: استعمال کرتے ہیں۔ الجلفاط و الجلفاظ: کشتی کے درز بند کرنے والا۔ جلفق (ض) جلفقا: الراس: موٹنا..... القوم بالمسحوق: آلہ سنگ انداز سے دشمن پر حملہ کرنا۔ تجلفق: بٹنے میں دانت نکالنا۔ السجلافة: گوشت کا ٹکڑا۔ کہا جاتا ہے "رجل جلافة" وہ بلا مرد۔ الجوالق و الجوالق: اُون یا بابوں کی گون۔ ج جوالیق: (معرب) جلیق و جلیق: دمشق یا اس کے حوالی کے مرغزار۔ الجلیکی و الجلیکی: ایک قسم کی مچھلی مار مابی کے مشابہ۔	جلمة (ض) جلمًا و اجلمة: کاٹنا۔ الصوف: کترنا..... الجوز: ہڈیوں پر سے گوشت اتارنا۔ السلم و الجلمن: اُون کترنے کی قینچی۔ جلمن پر شنیہ اور مفردوں کا اعراب آتا ہے۔ جیسے شریث السلمین و شریث الجلمن۔ الجلم: بکرا۔ بکری کا بچہ۔ ج جلام۔ الجلم: ایک قسم کا شکاری پرندہ۔ الجلمة و الجلمة و الجلمة: سب پوری چیز۔ تم کہتے ہو "اخذت الشئ بجلمته" میں نے پوری چیز لے لی۔ "وهذه جلمة الجوز" یہ ذن کئے ہوئے جانور کا سارا گوشت ہے۔ الجلمة: کتری ہوئی اُون۔ الجلم: چوبیس رات کا چاند۔ الجلمدو الجلمود: اُونوں کا بڑا گلد۔ جلمق: القوس: کمان پر تانت چڑھانا۔ الجلمساق: پٹھا جس سے تانت بنائی جاتی ہے۔ الجلمق: قباہ جلا مق۔ الجلمنار: گل اتار۔ الجلمین: گل قند۔ جلمہ (ف) جلمہا: الشئ: ظاہر کرنا۔ دور کرنا..... المصرة: باز رکھنا..... العمصامة: پیشانی سے بلند کرنا۔ جلمہ (س) جلمہا: سر کے اگلے حصہ کے بال کا اُڑ جانا۔ صفت (اجلمہ) السلمة: من الوادی: وادی کا کنارہ۔ وادی کے سامنے والی جہت۔ ج جلامہ۔ بیت (مخجلوة): بغیر دروازہ اور پردہ کے مکان۔ السجلاھق: غلہ۔ گولی اور بقول بعض غلیل (فارسیہ) جلام (ن) جلامہ: ظاہر ہونا۔ واضح ہونا..... عن بلده ومنه: نکنا..... الشئ: بلند ہونا۔ جلام (ن) جلموا و جلامہ: الامر: واضح	کرنا۔ ظاہر کرنا الرجل عن بلده: جلاوطن کرنا..... السحل: شہد نکالنے کے لئے دھواں کرنا..... عنہ الہیم: زائل کرنا۔ دور کرنا..... السیف: بھینٹل کرنا..... البصر بالکحل: روشن کرنا۔ (جلوة بتلیث الجسم و جلامہ و اجتملی) العروس علی زوجها: بناؤ سنگھار کر کے پیش کرنا۔ جلام (ن) و جلمی: الزواج عروسہ ہدیہ: شب زفاف میں ہدیہ دینا۔ جلمی (س) جلمی: سر کے اگلے حصہ کے بالوں کا اُڑ جانا۔ صفت (اجلمی) مؤنث جلموا۔ جلمہ: جلموا: کشاہ پیشانی۔ جلمی: قلاتا و عن فلان الامر: کسی کی مصیبت کو دور کر دینا۔ جلمی: منظرہ: نظر ڈالنا۔ کہا جاتا ہے "جلمی البازی": ہازنے سراٹھا کر شکار کو دیکھا..... عن ضمیرہ: مافی الضمیر ظاہر کرنا۔ جلمی: فلانا یاہو: دوسرے کے سامنے ظاہر کرنا۔ کھلم کھلا کرنا۔ اجلمی عن بلده: نکنا۔ اجلامہ عن بلده: نکالنا..... الرجل منزلہ: خوف کی وجہ سے چھوڑ دینا۔ تم کہتے ہو "اجلموا عن القنیل" مقتول کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تجلمی تجلمیا: الشئ: اچھی طرح ظاہر ہونا..... المكان: چڑھنا..... الشئ: گردن باندھ کر دیکھنا۔ تجلمی: القوم: ہر ایک کا حال دوسرے پر ظاہر ہونا۔ اجلمی: ظاہر ہونا۔ تم کہتے ہو "انجلمی الہیم عن قلبی" تم میرے دل سے دور ہو گیا۔ اجلمی: الشئ: دیکھنا..... العمصامة: عمامہ کو پیشانی سے بلند کرنا..... السحل: شہد نکالنے کے لئے دھواں کرنا۔ استجلمی: الشئ: ظاہر کرنے کو کہنا..... العروس: آراستہ ہو کر خاوند کے سامنے ظاہر ہونا۔ اجلمولی اجلمیلاہ: الرجل: ایک شہر سے
---	---	--

دوسرے شہر کو جانا۔

الْجَلَاءُ: سر کے بالوں کے گرنے کی ابتداء۔ ایک قسم کا سرمہ۔ ظہور و صوح۔

ابْنُ جَلَاءٍ: کھلی ہوئی چیز۔ صج۔ چاند۔

الْجَلَاءُ: بصر۔ کھلا ہوا معاملہ۔ کہا جاتا ہے "اقتت جلاء یومی" میں نے پورے دن اقامت کی۔

الْجَلَاءُ: سرمہ۔

الْجَلْوَةُ: شب زفاف کا ہدیہ جو شوہر دے۔

الْجَالِيَّةُ: الجالی کا مؤنث۔ مسافر لوگ جنہوں نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا ہو۔ ذی۔ جزیرہ جو زمیوں سے وصول کیا جائے۔ پھر اس کا استعمال ہر قسم کے خراج پر ہونے لگا۔ ج جوال مفرد جال۔

الْجَلِيَّةُ: واضح۔ روشن۔ صمٹل کیا ہوا۔ مؤنث جلیئة۔ عین جلیئة: دیدہ بینا۔

جَلِيَّةُ: الامر: کھلا ہوا معاملہ۔ یعنی خبر۔

الْأَجْلِيُّ: روشن۔ واضح۔ نمایاں۔ خوبصورت چہرہ والا۔ وہ شخص جس کے سر کے اگلے بال اڑ گئے ہوں۔ مؤنث جَلْوَاءُ۔ جَبْهَةٌ جَلْوَاءُ: کشادہ پیشانی و سَمَاءُ جَلْوَاءُ: آسمان بے ابر۔ تم کہتے ہو "فعلته من أجلأک" میں نے اس کو تمہاری وجہ سے کیا۔ ابن اُجْلِي: صج۔

الْمَجْلِيُّ: سر کا اگلا حصہ جس سے بال گر گئے ہوں۔ ج مجال۔

الْمَجْلُوُّ: جس کی طرف دیکھا جائے۔

جَلِيٌّ (ض) جَلِيًّا: السيف: صمٹل کرنا۔

جَلِيٌّ: الامر: ظاہر کرنا۔ الفرس: میدان میں آگے بڑھنا۔

الْجَلِيَّةُ: چھت کاروشن دان۔

الْمَجْلِيُّ: میدان میں آگے رہنے والا۔

الْجَلَابِيْزُ: ایک قسم کا کھانا جو کہ پھنڈے کے گوشت مع پوست کے تیار کیا جاتا ہے۔

الْجَلِيَّانُ: خواب یوحنا کا سفر۔

الْجَلِيَّانُ: کشف و انظہار۔

جَمٌّ (ن ض) جَمُّوْنَا: الماء: کثرت سے

جمع ہونا۔ العظم: زیادہ گوشت والی ہونا۔

البئر: زیادہ پانی والا ہونا۔ صفت (جَمُوم)

..... الفراق: قریب ہونا۔ القوم: آرام

پانا اور زیادہ ہونا۔ (..... جَمًّا و جَمَامًا

و جَمَامًا و جَمَامًا. الکیل): لبالب بھر کر

ناپنا۔ الماء: جمع ہونے دینا۔

المکیال: چوٹی تک بھرتا۔

(..... و أجم و أجم): الفرس: کوتل چھوڑ

دینا۔

جَمِّم: المکیال: چوٹی تک بھرتا

(..... و تجمّم) النبت: گنجان ہونا۔ کثرت

بڑھنا۔ صفت (جَمِيم) ج اجماء.

أجم: الامر: قریب ہونا۔ الفراق: وقت

آنا۔ الماء: جمع ہونے دینا۔ الفرس:

کوتل چھوڑ دینا اور اسی سے ہے "أجسم

نفسک یومًا او یومین" اپنے آپ کو دو

ایک روز آرام پہنچاؤ اور کام نہ کرو۔

استجم: الماء: کثرت جمع ہونا۔

الارض: آگنا۔ البئر: بھرنے کے لئے

چھوڑ دینا اور کہا جاتا ہے "انسی لانتجم

قلبی بئسی من اللہو": میں اپنے دل کو کھیل

کو دے بہلاؤں گا۔

الجم: بصر۔ بڑی تعداد۔ کہا جاتا ہے

"جماؤوا جمًا غفیراً و جمّ الغفیر

و جمّ الغفیرة. و الجمّ الغفیرة": یعنی پوری

جماعت۔ شریف و رذیل سبھی بکثرت

آئے۔ الجمّ من الماء: پانی کا بڑا حصہ۔

ج جمّام و جموم.

الجمّام: بتثلیث الجیم و (الجمّم) وہ

حصہ جو پیمانے کے بھرنے کے بعد سرے پر

ہو۔ کہا جاتا ہے "جمّام القذح ماء": یعنی

پانی سے بھرا ہوا پیالہ۔ الجمّم: بڑی تعداد۔

الجمّام: جھکن کے بعد گھوڑے کا آرام لینا۔

الجمّة: بہت پانی والا کنواں۔ پانی جمع

ہونے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "استقی من جمّة

البئر" زیادہ پانی والے کنوئیں سے پانی

نکال۔ ج جمّام.

الجمّة و الجمّة: اکثر حصہ۔ کہا جاتا ہے

"جماؤوا فی جمّة کثیرة" وہ لوگ بڑی

تعداد میں آئے۔ و الجمّة: سر کے بالوں کی

کثرت۔ لو سے نیچے تک کے بال۔ ج

جمم.

الجمّام و الجمّان: لبالب بھرا ہوا پیالہ۔

الاجمّ: بے سنگ و الامینڈ جا۔ مؤنث جمّاء

ج جمّم: بغیر تیزہ کے لڑنے والا۔ الحصن

الاجمّ: بغیر نگرہ و الاقلعہ۔ بسان الاجمّ:

بغیر نگرہ والی عمارت۔

الجمّاء و الجمّان: بھرا ہوا۔ کہا جاتا ہے "امرأة جمّاء

العظام" بہت فریہ عورت۔ أرض جمّاء:

ہموار زمین۔ کہتے ہیں جمّاء و اجمّاء الغفیر

و جمّاء الغفیرة و الجمّاء الغفیرة

و جمّاء غفیرة و بجمّاء الغفیرة الجمّة"

یعنی سب لوگ آئے۔

المجمّم و الجمّم: سینہ۔ کہا جاتا ہے 'ہو

رخب الجمّم" وہ فراخ دل ہے۔

الجمّانی و المجمّم: وہ شخص جس کے سر

میں بال بہت ہوں۔

الجمّی: بالقی۔

جمیّ (س) جمّا: غلیبہ: غضبناک ہونا۔

تجمّا: فی ثیابہ: لینا القوم: اکٹھا ہونا۔

الجمّا و الجمّاء: شخص۔

جمّم جمّم جمّم و تجمّم جمّم: الکلام: غیر

واضح گفتگو کرنا۔ کہا جاتا ہے تجمّم جمّم عن

الامر: یعنی پیچھے ہٹ گیا۔ و جمّم جمّم شینا

فی صدرہ: اس نے اپنے سینہ میں پوشیدہ

رکھا۔

الجمّم جمّة: کھوپڑی۔ لکڑی کا پیالہ۔ کنواں

جو زمین شور میں گھودا جائے۔ ج جمّم جمّم۔

الجمّم جمّم: سردار لوگ۔

الجمّم (ف) جمّم جمّم و جمّم جمّم

جمّم جمّم: الفرس: سرکشی کرنا۔ سوار کے

قابو میں نہ آنا۔ صفت مذکر و مؤنث

(جمّا جم) ج جمّم جمّم اور اسی سے ہے

"جمّم جمّم المرأة زوجھا" جبکہ شوہر کو چھوڑ

دے اور اپنے میکہ چلی جائے۔ وجمَح الرَجُلُ: خود مر ہونا۔ خود رائے ہونا۔ کہا جاتا ہے "جَمَحَتِ الْمَفَازَةُ بِالْقَوْمِ": بیابان نے قوم کو ہلاک کر دیا۔ "جَمَحَ بَفِلَانٍ مُرَاةً": یعنی اس نے اپنی مراد کو نہیں پایا۔ الجُمَاحُ: جنگ کے شکست خوردہ لوگ۔ بے پھل کا تیر۔ ج جمامح و جمامیح۔ فرس (جَمُوخُ): سرکش گھوڑا۔ رَجُلٌ جَمُوخٌ: خود سر مرد۔

جَمَخُ (ن) جَمَخًا: بکتر کرنا۔ صفت (جمامح) جَمَخٌ و (جَمُوخٌ و جَمِيخٌ) جَامَخَةٌ: فخر کرنے میں مقابلہ کرنا۔

جَمَدٌ (ن) جَمَدًا و جَمُودًا: الماء: جم جانا..... الدم: خشک ہونا..... جَمَدَتِ يَدُهُ: خشک ہونا۔ عَيْنُهُ: آنسو کا بند ہو جانا۔ صفت (جَمَادٌ و جَمُودٌ و جَمِيْدٌ) العين: مَوْنَتٌ (جَمُودٌ)

أَجْمَدٌ: خشک ہونا۔ بے فیض ہونا۔ ماہ جمادی میں داخل ہونا۔ کہا جاتا ہے "أَجْمَدَ حَقَّةٌ عَلَيْهِ" اس نے اپنا حق اس پر ثابت کیا۔

أَجْمَدَةٌ و جَمَدَةٌ: جمانا۔

جَمَادَةٌ مُجَامَدَةٌ: پڑوسی ہونا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مَجَامِدِي": اس کے گھر کی دیوار میرے گھر سے متصل ہے۔

الجَمَدُ و الجَمُدُ: جما ہوا پانی۔ برف (.....) و الجَمُدُ و الجَمُدُ: سخت اور بلند زمین۔

الجَمَادُ جَمَدٌ: زمین۔ سَنَةُ جَمَادٍ: بے بارش کا سال۔ أَرْضٌ جَمَادَةٌ: زمین جس پر بارش نہ ہوئی ہو۔ سَنَاقَةُ جَمَادٍ: ست رفتار اونٹنی۔ کہا جاتا ہے "فِلَانٌ جَمَادٌ الْكُفَيْتِ" فلاں بخیل ہے۔ "و الجَمَادُ جَمَادَاتٌ و (الجَمَامِدُ) جَمَامِدٌ: وہ چیز جس میں زندگی نہ ہو جیسے پتھر وغیرہ و الفعل الجَمَامِدُ: وہ فعل جس کی گردان نہ آتی ہو۔ جیسے لَيْسَ و عَسَى و "جَمَادِلُهُ": جی بکر سر بخیل کے لئے بدعا ہے یعنی ہمیشہ اسی حال پر رہے۔

جَمَادِي. الأولى و الآخرة: ہجری سال کا پانچواں و چھٹا مہینہ۔ جَمَادَاتُ: عین جَمَادِي: وہ آنکھ جس سے آنسو نکلنے ہی نہ ہوں۔

الجَمَادُ: برف پیچھے والا۔ سَيْفٌ جَمَادٌ: شمشیر براں۔

المُجَمِدُ: بہت بخیل۔ جوئے کا امین۔ قوم کا امین۔

جَمَرٌ (ض) جَمْرًا و جَمْرًا و أَجْمَرٌ و اسْتَجْمَرُ: القوم علی امر: اکٹھا ہونا۔ جمرہ: چنگاری دینا۔ جمر القوم علی امر: جمع کرنا۔ جَمْرُ النخلة: درخت خرما کا جَمَارٌ: کائنا (دیکھو جَمَارٌ)..... اللحم: انکارے پر رکھنا..... الامر القوم: اکٹھے ہونے پر مجبور کرنا..... المرأة شعرا: چوٹی گوندھ کر پیچھے ڈالنا۔

أَجْمَرٌ: تیز چلنا اور اسی سے ہے "أَجْمَرَيْنِ يَذِيه": وہ اس کے سامنے تیز چلا..... الثوب: دھونی دینا..... النار: تیار کرنا۔ الامر القوم: کسی امر کا عام ہونا۔ المرأة: چوٹی گوندھ کر پیچھے ڈالنا۔

تَجْمَرُ: العيش: دشمن کے ملک میں گھر جانا اور نہ لوٹنا۔ بالجمرة: دھونی دینا۔ القبائل: اکٹھا ہونا۔

إِجْمَرٌ و اسْتَجْمَرُ: بالمجمرة: دھونی دینا۔

الجَمْرَةُ: الجمر کا واحد۔ انکارہ۔ کنکری۔ تمام وہ لوگ جو آپس میں بالکل متحد ہو گئے ہوں۔ کہا جاتا ہے "ہَسُو فِلَانٍ جَمْرَةً": فلاں کی اولاد متحد ہے۔

الجَمَارُ: جماعت۔ متفق لوگ۔ جَمَارِي و جَمَارِي بالتونين و بدونه: بھتی کل۔ کہا جاتا ہے "جاء القوم جَمَارِي": سب لوگ آئے۔ جاء القوم (جَمَارًا): سب لوگ آئے۔

الجَمَارُ و الجَمَارُ: درخت خرما کا گوند جو چربی کی طرح سفید ہوتا ہے۔

الجَمِيرُ: قوم کے جمع ہونے کی جگہ۔ اِسْنُ جَمِيرٍ: تاریک رات۔ جَمِيرُ الشَّعْرِ: بالوں کی گندھی ہوئی چوٹی۔

الجَمِيرَةُ: بالوں کی گندھی ہوئی چوٹی۔ المَجْمَرَةُ و المَجْمَرُ: اٹیکٹھی۔ عود سوز۔ جَمَامِرُ.

حافر. (مُجَمِرٌ و مُجَمِرٌ): سخت کھر۔

جَمَزٌ (ض) جَمَزًا: تیز دوڑنا۔ صفت (جَمَازٌ) جَمَزَةٌ: ٹھٹھا کرنا۔

الجَمَزِيُّ: تیز رفتاری۔ کہا جاتا ہے "يَعْدُو الجَمَزِيُّ": وہ تیز دوڑتا ہے۔ "جَمَازٌ جَمَزِيٌّ": تیز رفتار گدھا۔

الجَمَزَةُ: بچلی جس میں دانہ ہوتا ہے۔

الجَمِيرُ و الجَمِيرِيُّ: گولہ کا درخت۔

جَمَسٌ و جَمَسٌ (ك ن) جَمُوسًا السمن: جم جانا۔

الجَمَاسُ - فائبات جَمَاسٍ: پڑ مردہ گھاس۔ دم (جَمِيسٌ): خشک خون۔

الجَمَسَتُ: ایک قسم کا قیمتی پتھر۔

الجَمَامُوسُ: جَمِيسٌ۔ ج جوامیس۔

جَمَشٌ (ن ض) جَمَشًا: الراس: موڈنا اور اسی سے ہے مکان (جَمِيشٌ) نباتات سے خالی جگہ۔ جَمَشٌ الناقة: انگلیوں سے دوہنا۔

جَمَشَةٌ: محبت سے چٹکی لینا۔ پیار و محبت کا کھیل کھیلنا۔

الجَمَشُ: بھس۔ آہستہ آواز۔

الجَمُوشُ و الجَمِيشُ: پال صاف کرنے کی مرکب دوا۔

جَمَعٌ (ف) جَمَعًا: المتفرق: اکٹھا کرنا۔ جمع کرنا۔ کہا جاتا ہے "جَمَعَتِ الْجُمُعَةُ": جمع کی نماز قائم کی گئی۔

جَمَعٌ: جمع کرنا (تشدید مبالغہ کے لئے ہے)..... المسلم: جمع کی نماز میں حاضر ہونا۔ جَمَاعَةٌ مُجَامَعَةٌ و جَمَاعًا: علی کذا: اتفاق کرنا۔ موافقت کرنا۔ جَمَاعِيًا: ہم بستری کرنا۔

اجمع. القوم علی کذا: اتفاق کرنا مکان
منصرفاً: اکتفا کرنا۔ الامر وعلی الامر: پختہ
ارادہ کرنا۔ الابل: اکٹھے ہانگنا۔

اجتمع. الغلام: جوان وقوی ہونا۔ (اس کا
استعمال عورتوں کے لئے نہیں ہے
(..... وتجمع) القوم: اکٹھا ہونا..... الشئ
المتفرق: متفرق چیز کا اکٹھا ہو جانا۔
انجمع. الشئ: اکٹھا ہونا۔

استجمع. له الامر: منشا کے مطابق ہونا۔
القوم: سب کا چلنا۔ البقل: خشک
ہونا۔ الفرس جرباً: پوری طاقت سے
دوڑنا۔

الجمع: محس۔ لوگوں کی جماعت۔ ج
جُموع. یوم الجمع: قیامت کا دن۔
جُمع. الكف: مٹھی۔ کہا جاتا ہے "ضربته
بجمع کفّی": میں نے اس کو گھونٹے سے
مارا۔ مٹھی بھر چیز۔ ج اجماع.

الجمعة: ہفتہ۔ کہتے ہیں "استاجر الاجیر
فجماعة" اس نے مزدور کو ہفتہ واری پر
رکھا۔ اجتماع: دوستی۔ جمعة من تمر: مٹھی
بھر کھجور۔ (..... والجمعة): ہفتہ کا ساتواں
دن۔ ج جمع و جمعات.

الجماعة: آدمیوں کا گروہ۔ ج جماعات
الجماعات والجماعات: چٹکی وغیرہ کا
رجسٹر۔

الجماع: محس۔ جماع الشئ: کسی چیز کو جمع
کہا جاتا ہے "جماع الخباء الانجیہ" خباء
کی جمع انجیہ ہے۔ "والخمر جماع
الاثم": شراب ہر قسم کے گناہوں کا جامع
ہے۔ قدر جماع: بڑی ہانڈی بڑی دیگ۔

الجامع: فا۔ جامع مسجد۔ ج جوامع
(الكلام الجامع): کلام جس کے الفاظ کم
اور معنی بہت ہوں۔ ج جوامع. الیوم
الجامع: روز جمعہ۔ قدر جماع: دیگ۔
أبو جامع: دست خوان کی کنیت۔

الجامعة. الجامع کا مؤنث۔ تعلق۔
طوق۔ قدر جامعة: بڑی دیگ۔

الجامعة: یونیورسٹی جو کہ اپنے ماتحت کئی ذیلی
شعبے رکھتی ہو جن میں مختلف علوم و فنون کی تعلیم
دی جاتی ہے۔

الجمع: لوگوں کی جماعت۔ جمع شدہ لشکر۔
اور تاکید کے موقع پر بولا جاتا ہے "جساؤوا
جمیعہم": سب لوگ آئے اور کہا جاتا ہے
"زأی جمیع": ٹھیک رائے۔
الجمیعة: اجتماع۔ ج جمایع.

أیجامعة: کتاب مقدس کے اسفار میں سے
ایک۔

أجمع: الفاظ تاکید میں سے ہے۔ اس لفظ
سے ہر اس چیز کی تاکید لاتے ہیں جس
کا افتراق حسی یا حکمی طور پر جائز ہو۔ کہا جاتا
ہے "جساؤوا جمعہم و باجمعہم": سب
لوگ آئے۔ مؤنث جمعاء ج اجمعون.

المجتمع: فا۔ کہا جاتا ہے "رجل مجتمع"
جوان "ومشی مجتمعاً" ہاتھ پیر ہلاتے
ہوئے وہ تیز تیز چلا۔

المجتمع: جمع کرنے یا جمع ہونے کی
جگہ۔ اکیڈمی۔ کہا جاتا ہے "أخذت محبته
بمجامع قلبی" اس کی محبت میرے دل پر
چھا گئی۔

ارض (مجمعة ومجمعه ومجمعة): وہ
زمین جس میں قافلہ اکٹھا ہو جائے اور بٹکنے
کے خوف سے علیحدہ نہ ہو۔

المجتمع: وہ تالیف جس کو علماء نصاریٰ نے
دینی امور کے لئے منظور کیا۔

المجمع العلیمی: علمی ادبی اور فنی جماعتیں
جس کو اکادمی ادبیات وغیرہ جیسے ناموں سے
موسوم کیا جاتا ہے۔

امر (مجمع): قطع معاملہ۔

المجموع: منبع۔ ہر کتاب جس میں مختلف
چیزیں جمع کی گئی ہوں۔ جیسے اشعار قصص
وغیرہ۔ ج مجامیع اور نحو یوں کے نزدیک
جمع پر اطلاق کیا جاتا ہے۔

الجماعیة: اجتماعی نظریہ جس میں دعویٰ کیا
گیا ہے کہ قومی مشکلات کا حل یہ ہے کہ

آدم کے تمام وسائل قوم کے درمیان
مشترکہ ہوں۔

الجامیة: ج. جامکیات و (الجوامک)
ج جوامک: شاہی نوکرہ فوجیوں کی خواہ۔

جمل (ن) جملاً. الشئ: جمع کرنا
(..... واجتمل) الشحم: پگھلانا۔

جمل (ک) جملاً: خوبصورت ہونا۔
خوش خلق ہونا۔ صفت (جمیل) مؤنث
(جمیلة)

جملة: خوبصورت بنانا۔ جملة الشحم:
پگھلانا..... الجیش: دیر تک روکے رکھنا۔

جملة: اچھا معاملہ کرنا۔ توضع سرقہ قیدی
کرنا۔

أجمل. الشئ: جمع کرنا یا جملاً ذکر کرنا۔ کہا
جاتا ہے "أجمل الحساب والكلام ثم
فضله ویتنه": اس نے حساب اور کلام کو جملاً
کہا پھر اس کی تفصیل کی..... الشئ:
خوبصورت بنانا۔ زیادہ کرنا..... الشحم:

پگھلانا۔ فی العمل: عمدگی سے کام کرنا۔ فی
الطلب: تلاش میں اعتماد اختیار کرنا.....
القوم: لوگوں کے پاس اونٹوں کی کثرت
ہونا۔

تجمّل: آراستہ ہونا۔ خوبصورت ہونا۔
مصائب زمانہ پر صبر کرنا اور ذلت ظاہر نہ
ہونے دینا۔ حیاء کی وجہ سے مصیبت میں
چھپتی ہوئی چہرے لکھانا۔ فی الکلام: لطف و
مہربانی سے باتیں کرنا۔

استجمّل. البعیر: اونٹ کا جوان ہونا.....
الشئ: خوبصورت بھننا۔

الجمل: اونٹ۔ ج جمال وأجمال
و جمّل وجمالة. بتلیل الجیم و ج
جمالات. بتلیل الجیم وجمائل.....

اور جمل کا اطلاق اونٹنی پر شاذ ہے۔ کہا جاتا
ہے "فترت لبس جملی" میں نے اپنی
اونٹنی کا دودھ پیا۔ جمل اليهود: گرگت۔

جمل الماء: ایک آبی پرندہ جس کی چونچ
لبی ہوتی ہے۔ جمل البحر: ویل مچھلی۔ کہا

جاتا ہے "اتخذ الليل جملاً" وہ ساری رات چلا۔
 الجممل والجممل والجممل والجممل والجملة: موتی رسی۔ حساب الجممل: حروف ابجد کا حساب جو تارخ و ولادت یا وفات وغیرہ نکالنے میں کام آتا ہے اور اس کو حساب الابدید بھی کہتے ہیں۔
 الجمال (فا) اونٹوں کا ریوڑ مع چرواہوں کے۔ اونٹوں کا مالک۔
 الجمال: اونٹوں کا مالک یا ساربان ج جمالة.
 الجمال: خوبصورت۔ یا زیادہ خوبصورت۔ الجمال (مص): خوبصورتی۔ کہتے ہیں "جمالک ان لا تفعل کذا" تمہارے لئے مناسب ہے تم ایسا نہ کرو۔
 الجملة: مجموعة: جو مند اور مند الیہ سے مرکب ہو۔ ج جمئل.
 الجمئل: لوگوں کی جماعت۔
 الجمئل: احسان۔ نیکی پگھلی ہوئی چربی۔
 الجملاء: خوبصورت عورت (اس لفظ کے لئے افعال کا صیغہ نہیں جیسے ذیمة هؤلاء میں اھطل کا صیغہ نہیں)
 الجمان: موتی۔ واحد جمانة.
 الجمنا سنیک: ہر قسم کی جسمانی ورزش (جمناسٹک) جو کہ جسم کو طاقتور اور چکدار بنا دے۔
 ذوات الجناحین: کیڑوں کی اقسام۔ ان میں سے ایک پروں کی سیدھی بناوٹ والے اور دوسرے ٹیزھی بناوٹ والے۔ سیدھے پروں والے ان کے آرام کے وقت قریب قریب ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کے پاؤں ہوتے ہیں جن کے ذریعے دوڑ سکتے ہیں۔ جیسے کڑی۔ کچھ ان میں سے چھپے ہوئے پروں والے ہوتے ہیں رات کے بعد صبح کواڑنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کچھ حشرات چار پروں والے ہوتے ہیں۔
 جمہور جمهرة الشئ: جمع کرنا۔ اکثر حصہ

لینا..... علیہ الخیر: تھوڑی سی خبر دینا اور مراد کو چھپالینا..... (وتخمره) القوم: اکٹھا ہونا۔ کہا جاتا ہے "تخمره علینا" اس نے ہمارے اوپر دست درازی کی اور حقارت کی۔
 الجُمهور: ریت کا تودہ۔ قوم کے بڑے اور اشراف لوگ۔ قوم کی جماعت۔ ہر چیز کا بڑا حصہ۔ ج جمہایر.
 الجُمهوری: جمہور کی جانب منسوب نشہ آور شراب۔
 الجُمهوریة: رری پبلک۔ وہ سلطنت یا قوم جو اپنا صدر ایک معین مدت کے لئے بناتی ہے۔
 المَجْمُورات: زمانہ جاہلیت کے طبقہ ثانیہ کے سات قسیدے جن کا مرتبہ مسجع معلقات کے بعد ہے۔
 الجمَا والجمَا: الجمر ہوا پتھر۔ جسم کا الجمر ہوا حصہ جیسے پستان۔
 جمی (ض) جمیا: الماء: بہت ہونا۔
 تجمی: القوم: اکٹھا ہونا۔
 جمساء وخصساء وجماءة: الشئ: چیز کی دہازت۔
 جن (ن) جنًا وخنونا: دیوانہ ہونا۔ پاگل ہونا صفت (مجنون) ج مجانین..... عنہ:
 چیچنا..... الارض: پھول اگانا۔ الثبت: لمبا ہونا اور گتہ جانا..... الذباب: بہت بھینچنا۔
 کہا جاتا ہے "جن الذباب بالروض"
 ہریالی کو دیکھ کر کھیاں بھینچنا رہتی ہیں۔
 اجن. عنہ: چیچنا۔ اجنه الليل: چیچانا۔
 ڈھانپ لینا۔ اجن السمیت: کفن دینا ڈھن کرنا۔ (اجنه وجننه): دیوانہ بنا دینا۔
 تَجَنَّن واستجنون: دیوانہ ہونا۔
 تَجَانَن وتجانن: تکلف دیوانہ بننا۔
 اجسن. الشئ: چیچنا..... واستجنن:
 چیچنا۔ واستجنن فلانا: کسی کو طرب کی طرف بلانا۔ (ما اجننه): وہ کتنا مجنون ہے فعل تعجب ہے اور شاڈ سے اس لئے کہ یہ مفعول کے معنی میں ہے اور فعل تعجب فاعلی معنی میں

ہوتا ہے۔
 الجنة والجن من الشباب: آغاز جوانی..... من النسب: کجی۔ پھول جن الليل: رات کی تاریکی۔ جن الناس: لوگوں کی بڑی جماعت۔ کہا جاتا ہے "لاجن بهذا الامر" یعنی اس معاملہ میں کوئی پوشیدگی نہیں۔
 السجان: (فا) جن کا اسم جمع۔ ج سجنان۔ السجان: ایک قسم کا سفید سانپ۔
 الجنة: بارغ بہشت۔ ج سجنان و جنات۔
 الجنة: پردہ سجنان (.....) والسخن والسخنة: ہتھیاروں سے بچاؤ کی چیز۔
 ج حال۔ ج سجنان اور کہتے ہیں "قل قلب منجنه": یعنی وہ بے حیا۔ وخورائے ہو گیا۔
 "وقلب له ظہور المجن": یعنی وہ اس کی دوستی سے دشمنی کی طرف پلٹ گیا۔
 الجنین: قبر میت۔ کفن۔ ج اجنان۔ الجنان والجنانة: ڈھال۔
 السجان: دل۔ رات یا اس کی شدت تاریکی۔ پوشیدہ معاملہ..... من کل شیء: ہر چیز کا خوف۔ ج اجنان۔
 الجنون والجن والجنة: دیوانگی۔
 السجنین: ہر پوشیدہ چیز۔ قبر۔ مدفون۔ بچہ جو ابھی رحم مادر میں ہو۔ ج اجنة و اجنن۔
 المجننة: بچوں والی زمین۔ دیوانگی۔ کہا جاتا ہے "بہ منجنه" وہ دیوانہ ہے۔ چھینے کی جگہ۔
 جنی (س) جنًا: کبڑا ہونا۔ صفت (اجننا) مؤنث جنناة.
 جنًا (ف) جنسواء و اجنًا اجنساء و جنانا منجاناة و اجننا: تَجَانَنُوا عَلَیْہِ کسی کو مارے بچانے کے لئے اس پر چھا جاتا۔
 جنیة (ن) جنیبا: دفع کرنا۔ علیحدہ کرنا۔ دور کرنا۔ پہلو پر مارنا۔ تم کہتے ہو "حسریہ فجنیة" اس نے اسے مارا اور پہلو پر مارا۔
 "وجنیه الشئ: کسی سے کوئی چیز دور کرنا (..... جنیبا و منجنبا) البعیر: کوئل بانگنا۔ صفت مفعولی (جنیب و منجنوب) مؤنث جنیبة: کہا جاتا ہے "طرس جنیب

وخیل جنائب“ (..... جُنُونًا) الریح : جنوبی ہوا چلنا۔	وہ معیشت کے لحاظ سے نرم ہے۔ ”هُورٌ قِیقُ“ الجنائب: ”وہ لطیف ہے۔“	کرنا۔ أَجْنَحُ وَأَجْنَحُ وَأَسْتَجْنَحُ. الیہ: مائل ہونا۔ جھکنا۔
جَنْبُ (ن) جَنْبًا وَجَيْبٌ (س) جَنْبًا. الیہ: مائل ہونا۔ مشتاق مضطرب ہونا۔	الجنائب: ”گوشہ۔ قوم کے حملہ سے جو قریب ہو۔ کہا جاتا ہے“ أَخْصَبُ جَنْبًا	أَجْنَحَةٌ وَأَسْتَجْنَحُهُ: جھکانا۔ تَجْنَحُ وَأَجْتَنَحُ: ایک پہلو پر جھکانا۔ الْمَجْنَحُ: جانب۔ پناہ۔ کنارہ۔
جَنْبُ (ن س ض) جَنْبًا. الرَّجُلُ: ناپاک ہونا۔	”الْقَوْمُ“: قوم کا مقام سرسبز و شاداب ہے۔ و ”فَلَانٌ حَصِيبٌ الْجَنْبِ أَوْ جَدِيَّةٌ“: فلاں سرسبز ہے یا قحط زدہ ہے۔ جِ أُنْجِيَّةٌ.	الْمَجْنَحُ وَالْمَجْنَحُ. من اللیل: رات کا ایک حصہ۔ جَنْحُ الطَّرِيقِ: راستہ کا کنارہ۔
جَنْبٌ: پہلو میں درد والا ہونا۔ نمہ نیالائق ہونا صفت (مَجْنُوبٌ) (-) وَأَجْنَبٌ وَأَجْنِبُ القَوْمُ: جنوبی ہوا لگنا۔	الجنائب: جَنْبًا: کا مصدر۔ کہا جاتا ہے ”فَرَسٌ طَوَّلَ الْجَنْبِ“ آسانی سے تالچ ہونے والا گھوڑا۔	الْمَجْنَحُ وَالْمَجْنَحُ. من اللیل: رات کا ایک حصہ۔ جَنْحُ الطَّرِيقِ: راستہ کا کنارہ۔
جَنْبُهُ وَتَجْنِبُهُ وَتَجَانِبُهُ وَاجْتَنِبُهُ: دور ہونا۔ جَنْبُهُ الشَّيْءِ: کسی سے کوئی چیز دور کرنا۔	الجنائب: نمونہ کی بیماری۔ الْمَجْنُوبُ: دکن۔ دکنی ہوا۔ جِ جَنْبًا.	الْمَجْنَحُ وَالْمَجْنَحُ. من اللیل: رات کا ایک حصہ۔ جَنْحُ الطَّرِيقِ: راستہ کا کنارہ۔
جَنْبَانِيَّةٌ: پہلو میں چلنا۔	الْمَجْنُوبُ: نمونہ کی بیماری میں مبتلا۔ فَرْمَانِدَارٌ: ایک قسم کی عمدہ گھوڑ۔	الْمَجْنَحُ وَالْمَجْنَحُ. من اللیل: رات کا ایک حصہ۔ جَنْحُ الطَّرِيقِ: راستہ کا کنارہ۔
أَجْنِبِيَّةٌ: دور کرنا۔ أَجْنَبُ الرَّجُلُ: دور ہونا۔ إِسْتَجْنَبُ: ناپاک ہونا۔	الْمَجْنُوبُ: نمونہ کی بیماری میں مبتلا۔ فَرْمَانِدَارٌ: ایک قسم کی عمدہ گھوڑ۔	الْمَجْنَحُ وَالْمَجْنَحُ. من اللیل: رات کا ایک حصہ۔ جَنْحُ الطَّرِيقِ: راستہ کا کنارہ۔
الْمَجْنَبُ: بمص..... جِ أَجْنَابٌ وَجُنُوبٌ: پہلو۔ جہت۔ جانب۔ تم کہتے ہو ”قَعْدَت السی جَنْبُ فَلَانٍ وَالسی جَنْبَانِيَّةٌ“ میں فلاں کے پہلو میں یا اس کی جانب میں بیٹھا۔	الْمَجْنُوبُ: نمونہ کی بیماری میں مبتلا۔ فَرْمَانِدَارٌ: ایک قسم کی عمدہ گھوڑ۔	الْمَجْنَحُ وَالْمَجْنَحُ. من اللیل: رات کا ایک حصہ۔ جَنْحُ الطَّرِيقِ: راستہ کا کنارہ۔
جَارُ الْمَجْنَبِ: ہمسایہ جو پہلو ہی میں ہو۔ ذات الْمَجْنَبِ: نمونہ۔	الْمَجْنُوبُ: نمونہ کی بیماری میں مبتلا۔ فَرْمَانِدَارٌ: ایک قسم کی عمدہ گھوڑ۔	الْمَجْنَحُ وَالْمَجْنَحُ. من اللیل: رات کا ایک حصہ۔ جَنْحُ الطَّرِيقِ: راستہ کا کنارہ۔
الْمَجْنَبُ: بمص..... کچھ انگرا پن۔	الْمَجْنُوبُ: نمونہ کی بیماری میں مبتلا۔ فَرْمَانِدَارٌ: ایک قسم کی عمدہ گھوڑ۔	الْمَجْنَحُ وَالْمَجْنَحُ. من اللیل: رات کا ایک حصہ۔ جَنْحُ الطَّرِيقِ: راستہ کا کنارہ۔
الْمَجْنَبُ: غیر فرماں بردار۔ اجنبی۔ مسافر دور ناپاک (واحد ثنیہ جمع مذکر مؤنث سب کے لئے مستعمل ہے) (السَّجَارُ الْمَجْنَبُ: ہمسایہ جو غیر قوم کا ہو)	الْمَجْنُوبُ: نمونہ کی بیماری میں مبتلا۔ فَرْمَانِدَارٌ: ایک قسم کی عمدہ گھوڑ۔	الْمَجْنَحُ وَالْمَجْنَحُ. من اللیل: رات کا ایک حصہ۔ جَنْحُ الطَّرِيقِ: راستہ کا کنارہ۔
الْمَجْنَبُ: گوشہ نشین۔ اجنبی۔ مسافر۔ بھیریا۔ رجلٌ جَنْبٌ: مہمانوں کے ڈر سے راستہ میں کتر کر چلنے والا۔	الْمَجْنُوبُ: نمونہ کی بیماری میں مبتلا۔ فَرْمَانِدَارٌ: ایک قسم کی عمدہ گھوڑ۔	الْمَجْنَحُ وَالْمَجْنَحُ. من اللیل: رات کا ایک حصہ۔ جَنْحُ الطَّرِيقِ: راستہ کا کنارہ۔
الْمَجْنَبُ: گوشہ نشین۔ جانب۔ الْمَجْنَبِيَّةُ من السناب: ہر وہ جو درخت سے چھوٹا اور تیل سے بڑا ہونے جَنْبٌ. جَنْبًا الْأَنْفُ وَجَنْبَانَا وَجَنْبَانَا: ناک کے دونوں طرف۔	الْمَجْنُوبُ: نمونہ کی بیماری میں مبتلا۔ فَرْمَانِدَارٌ: ایک قسم کی عمدہ گھوڑ۔	الْمَجْنَحُ وَالْمَجْنَحُ. من اللیل: رات کا ایک حصہ۔ جَنْحُ الطَّرِيقِ: راستہ کا کنارہ۔
الْمَجْنَبِيَّةُ: وہ چیز جس سے پرہیز کیا جائے۔ الْمَجْنَبُ: فَا۔ غیر فرماں بردار۔ مسافر۔ گھوڑا۔ جس کے دونوں قدم کا فاصلہ دور ہو جِ جَنْبًا انسان کا پہلو۔ گوشہ۔ جانب۔ جِ جوانب کہا جاتا ہے ”هُوَلَيْنِ الْجَنْبِ“:	الْمَجْنُوبُ: نمونہ کی بیماری میں مبتلا۔ فَرْمَانِدَارٌ: ایک قسم کی عمدہ گھوڑ۔	الْمَجْنَحُ وَالْمَجْنَحُ. من اللیل: رات کا ایک حصہ۔ جَنْحُ الطَّرِيقِ: راستہ کا کنارہ۔

الجَنْدَلُ: بڑی چٹان۔ واحد جَنْدَلَةٌ: ج
جنادل۔

جَنْزَةٌ (ض) جَنْزًا: چمپانا۔ جمع کرنا۔

جَنْزٌ: مرنا اور تابوت میں رکھا جانا۔

جَنْزٌ: المیت: تابوت میں رکھنا۔

الجَنْزُ: مٹی کا چھوٹا سا گھر۔

الجَنْزَةُ وَالْجَنْزَةُ: میت۔ میت کا

تابوت۔ میت کے دفن میں جانے والے۔

مجلس ماتم۔ شراب کی مشک۔ ج جَنْزِیو۔

الجَنْزِیو: مُردوں کے آگے آگے پڑھنے

والا۔

الجَنْزَارُ وَالْجَنْزِیو: تانبے کا زنگار۔

(جدید)

الجَنْزِیو: زنجیر۔

جَنْسٌ (ن) جَنْسًا: الصَّمْرُ: بالکل پک

جانا۔

جَنْسٌ (س) جَنْسًا: الماءُ ونحوه: جم

جانا۔

جَنْسٌ: بہ: مشابہ ہونا۔

جَانَسَهُ جَنْسًا وَمُجَانَسَةً: مشابہ ہونا۔ ہم

جمل ہونا اور اسی سے ہے "فلانٌ یُجَانِسُ

البھائیئم" فلاں چوپاؤں کے مشابہ ہے۔ یعنی

اسے عقل و تیز نہیں۔

تُجَانَسًا: ہم جنس ہونا اور اسی سے ہے "ومع

التَّجَانُّسِ التَّنَاسُ" ہم جنس کے ساتھ

انیت ہے۔

الجَنْسُ: نابیت جو انواع متعدده کو شامل ہو

جیسے انسان اور گھوڑے کے لئے حیوانیت۔

جَمٌّ: ج انجمن۔

الجَنْسُ: ہما ہوا پانی۔

الجَنْسُ: اپنے جنس کے اندر اصل۔

الجَنْسِیَّةُ: جنس کی حالت یا ماہیت۔

الجَنْسُ: فی البدیع: علم بدیع کی اصطلاح

میں دو کلموں کا کلا یا بعضا: مشابہ ہونا۔

جَنْسٌ (ن) جَنْسًا: الیہ: کودنا۔ متوجہ ہونا

..... مُنہ: گھبراہٹ۔

جَنْسٌ: خوف سے بھاگنا۔ بَصْرہ: گھورنا۔

تیز نظر والنا۔ جَنْسٌ الطَّرِیْقُ بِالنَّاسِ: تنگ

ہونا۔ جَنْسٌ: مرنا۔

جَنْفٌ (ض) جُنُوفًا وَجَنْفٌ (س) جَنْفًا:

عین الطَّرِیْقُ: راستے سے علیحدہ ہونا۔

(وَأَجْنَفٌ) فِی وَصِیْئَةٍ: قلم کرنا۔ صفت

(جَنْفٌ وَاجْنَفٌ)

جَانَفٌ جَنْفًا: أَهْلُهُ: غصہ کی وجہ سے علیحدہ

ہونا۔

تَجَانَفٌ: لَلْإِثْمِ: مائل ہونا..... عن الطَّرِیْقِ:

الگ ہونا۔

الجَنْفُ: قلم۔ حق و انصاف سے تجاوز۔

الْأَجْنَفُ: خمیدہ پشت۔ مَوْنٌ جَنْفًا: ج

جَنْفٌ.

المُجْنَفُ: طبعاً حق سے اعراض کرنے والا۔

جَنْقٌ (ض) جَنْقًا وَجَنْقٌ: الحَجَرُ: گوچین

سے پھینکنا۔

السَّمْنَجِیْنِیُّ: گوچین۔ فلاخن۔ لڑائی کا ایک

آلہ جس سے پتھر پھینکا کرتے تھے۔ ج

مَجَابِقٌ وَمَجَابِقٌ وَمَنْجَبِقَاتٌ.

الجَنْكُ: ایک قسم کا باجا۔ ج جَنْوُکُ.

جَنْیٌ (ض) جَنْیًا وَجَنْیٌ: الثَّمَرُ: درخت

سے پھل توڑنا۔ کہا جاتا ہے "جَنْیَ الثَّمَرَةَ

لہ وجنساءً ایساھا". (جَنْیًا) الذَّهَبُ: کان

سے نکالنا۔ (جَنْیًا): گناہ کرنا۔ صفت

(جَنْیٌ) ج جَنْیًا وَجَنْیًا وَجَنْیًا: مَوْنٌ

جَنْیًا: جَوَانٌ وَجَنْیًا.

أَجْنِیُّ: الشَّجَرُ: پلٹا۔ أَجْنَبٌ الْأَرْضُ:

زیادہ پھل یا زیادہ پیداوار والی ہونا۔

جَنْسِیٌّ مُجَانَسًا وَجَنْسِیٌّ: علیہ: ناکردہ گناہ

کی نسبت کرنا۔ (تَجَنْسٌ وَاجْتَنْسٌ) الثَّمَرُ:

چننا۔ توڑنا۔ "اجْتَنْسِی مَاءَ الْمَطَرِ": گھٹات

پر آکر پانی پینا۔

الجَنْیُّ: چننا ہوا (پھل ہوا یا سوتا یا شہد وغیرہ)

جَنْسِیٌّ وَاجْنِیٌّ: ثَمَرٌ (جَنْیٌّ): تازہ چننا ہوا

پھل۔

الجَنْیَّةُ: ہر وہ چیز جو چنی جائے۔

الجَنْیَّةُ: گناہ۔ رَشِیمٌ کا کبیرا۔

السَّمْحَنِيُّ: مصدر یسمی بمعنی چننا۔ چننے کی جگہ

جس سے پھل وغیرہ چننا جائے جیسے درخت

ج مَجَانٌ.

المَجْهَدُ: پرنکھنے والا۔ دانہ۔ ج مَجْهَابِدَةٌ.

المَجْهَبُ: شیرنی۔

المَجْهَبُ: بد صورت چہرہ۔

المَجْهَبُ: بے حیاء۔

المَجْهَبُوقُ: چوہے کی مٹکئی۔

مَجْهَجَةٌ: بالسبع: روکنے کے لئے چیخنا

چلانا۔

تَجْهَجَةٌ: عنہ: باز رہنا۔

المُجْهَجَةُ: شیر۔

مَجْهَدٌ (ف) مَجْهَدًا: فی الامر: بہت کوشش

کرنا..... بالمرجل: امتحان کرنا۔ مَجْهَدَةٌ

المرضُ: لاغر کرنا۔ مَجْهَدُ اللِّیْنِ: سارا کھن

نکال لینا۔ (.....) وَأَجْهَدُ الطَّعَامَ: خواہش

کرنا۔ مَجْهَدًا وَأَجْهَدُ الدَّابَّةَ: طاقت سے

زیادہ لا دانا۔ أَجْهَدُ القَالَ: بکھیرنا۔ فَا کرنا۔

أَجْهَدُ الحَقِّ: ظاہر ہونا۔ أَجْهَدُ فیہ الشَّیْبُ

: اچھی طرح بڑھاپا ظاہر ہونا۔ أَجْهَدُ فی

الامر: احتیاط کرنا۔ أَجْهَدُ عَلَیْنَا القَدْوُ:

دشمنی میں پوری کوشش کرنا۔ أَجْهَدُ

الامر لزیادہ: ممکن ہونا۔

مَجْهَدٌ: پوری کوشش کرنا۔ مَعْمُکِیْنٌ: لاغر

ہونا۔

مَجْهَدٌ (س) مَجْهَدًا: عِیشَةٌ: زندگی کا مکدر

ہونا۔

مَجْهَدٌ مُجَاهَدَةٌ وَجْهَادًا: پوری طاقت

صرف کرنا۔ کہا جاتا ہے "مَجْهَدُوا فی اللہ

حَقَّ مَجْهَدِهِ": اللہ کے راست میں پوری طرح

کوشش کرو جیسا کہ کوشش کا حق ہے.....

القَدْوُ: جنگ کرنا۔

تَجَاهَدُوا وَاجْتَهَدُوا: فی الامر: کوشش کرنا اور

پوری طاقت صرف کرنا۔

اسْتَجْهَدُوا: فی الامر: غور کرنا۔

الجْهَدُ وَالْمَجْهَدُ وَالْمَجْهَدُ: طاقت۔

استطاعت۔ کہا جاتا ہے "بَسَدَلُ جْهَدِهِ

ومَجْهُودَةٌ: اس نے اپنی طاقت صرف کی۔
مشقت۔ قرآن میں ہے "اقْسُمُوا بِاللّٰهِ
جَهْدَ اَيْسَانِهِمْ" انہوں نے بہت زور لگا کر
قسم کھائی۔

الجاهد: فا۔ بے خوابی والا۔ کہا جاتا ہے
"جَهْدٌ جَاهِدٌ": جیسے "لَيْلٌ لَّائِلٌ" و"شعر
شاعر۔

الجهاد: سخت زمین جس میں پیداوار نہ ہو
جُهد۔

الجهاد: مفس۔ دین کی حفاظت اور اللہ کے
کلمہ کو بلند کرنے کے لئے جنگ۔

الجهندان: وہ شخص جس کو مشقت لاحق ہو۔

الجهنيد: جانوروں کی پسندیدہ چراگاہ۔ کہا
جاتا ہے "مَرْعَى جَهْنِيَّةٌ"۔

الجهنادى: انتہائی۔ کہا جاتا ہے "جُهَادَاك
ان تفعل كذا": تمہاری انتہائی کوشش ہے کہ
تم ایسا کرو۔

الجهنيدى: کوشش۔ پوری کوشش۔ کہا جاتا
ہے "لا بلسن جهنيدى فى الامر"۔ میں
معاملہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں
گا۔

جَهْدٌ (ف) جَهْدًا وَجَهْدَةً.

الامر وبالامر: اعلان کرنا..... بالقول:
آواز بلند کرنا..... الصوت: بلند کرنا.....

الرجل: بے پردہ دیکھنا۔ دیکھنا اور آنکھوں
میں بڑا معلوم ہونا۔ تعظیم کرنا..... القوم: دیکھ
کر زیادہ سمجھنا..... الشئى: کسی چیز کو کھول کر
اندازہ کرنا..... الارض: بغیر جانے ہوئے
چلنا..... الشئى فلاناً: بیت و جمال سے
حیرت میں ڈال دینا..... الامر: ظاہر و
آشکار ہونا..... السقاء: مشکیزہ میں پاؤں کر
کھینچنا۔

جَهْدٌ (س) جَهْدًا. العَيْنُ: سورج سے
چندھیا جانا۔

جَهْدٌ (ك) جَهْدًا. الصوت: بلند ہونا۔
صفت (جھیسر و جھیسر): الرجل: دیکھنے
والے کی آنکھ میں بڑا معلوم ہونا۔

جَاهِرَةٌ مَجَاهِرَةٌ وَجَهَارًا. بالشئى: کھلم کھلا
ظاہر کرنا..... بالقراءة: بلند آواز سے پڑھنا
القوم بالامر: غلبہ کی کوشش کرنا۔

أَجْهَرُ. الامر وبه: اعلان کرنا..... بالقراءة:
بلند آواز سے پڑھنا..... الرجلُ: ہتھیگے بچے یا
صاحب جمال بچوں کا باپ ہونا۔

تَجَاهَرُ. بالامر: ظاہر کرنا۔

إِجْتَهَرُ. السقوم: تعداد میں بہت سمجھنا۔
الرجلُ: کھلم کھلا دیکھنا اور بڑا سمجھنا..... البنزُ:
صاف کرنا..... الشئى فلاناً: بیت و جمال
سے حیرت میں ڈال دینا۔

الجَهْرُ: مفس۔ چوڑا ٹیلہ۔ زمانہ کا ایک
حصہ۔ تم کہتے ہو "كلمته جَهْرًا وبالجهر"
میں نے اس سے کھلم کھلا گفتگو کی۔ "ولقيته
جَهْرًا": میں نے اس سے رودر ملاقات
کی۔

الجهر: بیت۔ حسین منظر۔

الجهار: مفس۔ تم کہتے ہو "لقيته جهارًا"
میں نے اس سے رودر ملاقات کی۔

الاجهر: سورج کی روشنی سے چندھیانے
والا۔ خوبصورت بیت والا۔ مؤنث
(جَهْرَاءُ): جَهْرٌ.

جَهْوَرٌ. الصوت: بلند قوی آواز والا۔ ج
جَهْرٌ.

الجهير: خوبصورت۔ بھلائی اور نیکی کے
لائق۔ من اللين: بے پانی کا دودھ۔ کلام
جهير: بلند گفتگو۔ امرأة جهيرة: بلند آواز
والی عورت۔ کہا جاتا ہے "هو عفيف
السيرة والجهيرة" وہ ظاہر و باطن کے
لحاظ سے پاک دامن ہے۔

الجهورى: بلند آواز کی صفت میں واقع ہوتا
ہے۔ کہا جاتا ہے "صوت جهورى": بلند
آواز اور بلند آواز والے کو کہتے ہیں

۔ "رجل جهورى"۔

المجهير والمجهار: وہ شخص جس کی عادت
بلند آواز سے گفتگو کرنے کی ہو۔

المجهير: خوردبین (Microscope)

جَهْدٌ (ف) جَهْدًا وَجَهْدَةً. على
الجريح: ماؤڈالنا۔

جَهْدَةٌ: تیار کرنا۔ مہیا کرنا..... الميت: کفن
وَن كاسامان کرنا..... العروس: جہیزہ کا
سامان تیار کرنا۔

تَجَهَّدًا. لسفسر: سامان مہیا کرنا۔
(واجتهار) للامر: آمادہ ہونا

الجهاز والجهاز. لليت اولللسافر
اوللعروس: ضروری سامان..... من جسم
الانسان: اعضائے انسانی جن کی کوئی خاص
غرض ہو۔ جیسے اعضائے تنفس۔ یا آلات
ہضم۔ ج. اجهزة و اجهزات.

الجهزاء: بلند زمین۔

الجهيز. من الخيل: ہلکا چمکا۔ موت
(جہیز و مجہز): ناگہانی موت۔

جهيزه: ایک عورت کا نام ہے۔ ایک مثل
ہے "قطعت جهيزه قول كل

خطيب" اس کا واقعہ یوں ہے کہ کچھ لوگ دو
قبیلوں کے درمیان ایک خون کے معاملہ میں
صلح کرانے کے لئے تفریر کر رہے تھے تاکہ
اولیاء مقتول کو دیت لینے پر راضی کر دیں کہ
اتنے میں جہیزہ نے کہا کہ مقتول کے ولی نے

قاتل کو پکڑ لیا اور قتل کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا
کہ "قطعت جهيزه قول كل

خطيب" یعنی اب دیت اور مقدمہ دیت کے
بارے میں گفتگو کی ضرورت نہیں کہ قاتل کے
قتل کے بعد دیت نہیں۔

جَهْدٌ وَجَهْدٌ (س) جَهْدًا وَجَهْدًا
وجَهْدًا. اليه: روتے ہوئے یار و نسا ہو کر
کسی سے فریاد کرنا۔

جَهْدٌ (س) جَهْدًا. صه: ڈرنا اور
بھاگنا۔

أَجْهَشُ. اليه: روتے ہوئے یار و نسا ہو کر
فریاد کرنا۔ "أَجْهَشْتُ النفس" اٹھنا۔

أَجْهَشَةٌ: جلدی کرنا۔

الجهشة: آنسو..... والجاهشة: لوگوں
کی جماعت۔

الاجْهَلِي: غمّياً..... (والمَجْهِي) من البسوت، بغير تحمت والامكان، مؤنث جَهْوَاء. حياءُ مُعْبِه: بغير پردے کا خیمہ۔ سَمَاءُ جَهْوَاء: کھلا ہوا آسمان۔	لکڑی۔ کریشی۔ المَجْهَلَة: سبب نادانی۔ المَجْهَل: بغير نشان کا جنگل۔ مَجْهَل اور اسی السجھل: نادانیاں۔ واحد جَهْل اور اسی سے ہے "أَنَا لَنَصْفَحُ عَنْ مَجْهَلِ قَوْمِنَا" ہم اپنی قوم کی نادانیوں سے درگزر کرتے ہیں (الفعل المجهول): فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ ناقص (مُجْهَلَة): بے داغ والی اُونٹ۔	الجَهْوُوش: تیز رفتار۔ جَهْضَة (ف) جَهْضًا: غالب ہونا۔ عن كذا: دور کرنا۔ منع کرنا۔ أَجْهَضَهُ: عن الامر: دور کرنا۔ تلخہ دور کرنا..... عن مكانه: اٹھانا..... فلانًا: پھلانا۔ أَجْهَضَتِ الْمَرْأَةُ: حمل گرا دینا۔ جَاهَضَهُ: باز رکھنا۔ جلدی کرانا۔ السجھاض: تیز طبیعت۔ مؤنث (جَاهِضَة) ج جَوَاهِض.
جَاب (ن) جَوْنَا وَقَوْنَا: البلاد: طے کرنا۔ جَاب السَّوْبَ جَوْنَا: اگانا۔ الصخرة: چٹان کو تراشنا۔	جَهْم (ك) جَهْمَةٌ وَجُهْمَةٌ: ترش رو ہونا۔ تیوری پڑھانا۔ صفت (جَهْم)	الجَاهِضَة: گدھے کا ایک سالہ مادہ بچہ۔ الجَهْوُوضَة وَالجَهْضَة: تیز طبیعت۔ السجھض وَ الْمَجْهَض وَ الجَهْض: ساقط شدہ بچہ۔ الجَهْضَة: عمر رسیدہ مادہ حیوانات۔ السجھضاض: من الاناث: اسقاط کی عادت والی عورت۔ مَجْهَضِيض.
جَاب (ن) جَوْنَا وَجَوَّبَ: السَّوْبَ: گریبان بنانا۔ جَوَّبَ الشُّي: بیچ سے کاٹنا۔ جَاوِبَةٌ مُجَاوِبَةٌ: گفتگو کرنا۔ جواب دینا۔ اجابہ اجابۃً و اجابًا و اجاب سؤالہ و عن سؤالہ والی سؤالہ: جواب دینا۔ کہا جاتا ہے "أجابته الی حاجته": اس کی حاجت پوری کرنے کے لئے خوشی سے آگے بڑھا۔ و اجابت الارض: اُگانا۔	جَهْم (س) جَهْمَةٌ وَجَهْمَةٌ: ترش روئی سے پیش آنا۔ کہا جاتا ہے "تَجَهَّمَتُ أُمَّلَةَ": جبکہ اپنی آرزو میں کامیاب نہ ہو۔	السجھضاض: من الاناث: اسقاط کی عادت والی عورت۔ مَجْهَضِيض.
تَجَاوَبُوا: ایک دوسرے کو جواب دینا۔ باہم گفتگو کرنا۔	أَجْهَمَ: السجْوُ: بے بارش کے بادل والا ہونا۔	جَهْل (س) جَهْلًا وَجَهَالَةً: نہ جاننا۔ اُن پڑھ ہونا..... علیہ: بے وقوف بننا۔ بے وقوف ہونا۔ اجدین کرنا۔ صفت (جَاهِل)
انجاب: السَّوْبَ: پھنسا..... السجھابة: بخل جانا۔	اجْتَهَمَ: رات کی آخری چوتھائی کی ابتداء میں داخل ہونا یا چلنا۔	ج جَهْل وَجُهْل وَجُهْلَاء وَجُهْل وَجُهْل وَجُهْلَة: جہل الحق: ضائع کرنا۔ جہل القدر: بہت اُبلنا۔
اجْتَابَ: البلاد: طے کرنا..... الصخرة: چٹان کو تراشنا..... البئر: کھودنا..... القميص: پہننا۔	السجھمة وَالجَهْمَة: رات کے آخری حصوں کی ابتداء۔ الجَهْمَة: بڑی دیگ۔ الجَهْم وَالجَهْمُوم: عاجز و ضعیف۔ الجَهْم: شیر۔	جہل: جہل کی نسبت کرنا۔
اسْتَجَابَهُ وَاسْتَجَابَ لَهُ اسْتِجَابَةً وَاسْتَجَوَبَهُ وَاسْتَجَوَبَ لَهُ اسْتِجَابًا: جواب دینا..... اللہ فلانًا ولفلان ومن فلان: دعا قبول کرنا۔	الجَهَام: بے بارش کا بادل۔ الجَهْمَان: بزعفران۔ جَهْن (ن) جَهْنُونًا: قریب ہونا۔ الجَهْن: ترش روئی۔ جَاوِبَة (جَهَانَة): نوجوان لڑکی۔ جَهْم: دوزخ (غیر منصرف)	جہال: نہ جاننا۔ بدسلوکی کرنا اور اسی سے ہے "زایست منہما مُجَاهِلَةٌ ثُمَّ انْقَلَبَتْ مُجَاهِلَةٌ" میں نے ان دونوں سے خوش معاملگی دیکھی پھر وہ بد معاملگی ہو گئی۔ تجھل: جنگت نادانی ظاہر کرنا۔
السجْوَاب: مخص۔ عورت کی قمیص۔ بڑا ڈول۔ اُلْجُھِي: مَجْجُوبَاب (والمَجْجُوب): ڈھال۔	جَهِي (س) جَهَا: البیث: اُجاڑ ہونا۔ ویران ہونا۔ صفت (جَاه)	اسْتَجْهَلْتُ الریخ الغصن: ہلانا۔ الجَهْلَة: نادانی۔
الجَوَاب: جواب۔ مَجْجُوبَة وَجَوَابَات: الجَابَة: قبولیت۔ کہا جاتا ہے "أَسَاءَ سَمْعًا فَأَسَاءَ جَابَةً" اس نے بُرے طریقے سے سنا اور بُرے طریقے سے قبول کیا۔	جَهِي: الجُوح: اکشادہ کرنا۔ جَاهِي مُجَاهَاةً: فلانًا: فخر میں مقابلہ کرنا۔ أَجْهِي: اجْهَاءُ: الطریق: واضح ہونا..... السماء: بادل کھل جانا..... علیہ: بخل کرنا..... الطریق: واضح کرنا۔ البیث: بے پردہ بنانا۔ المرأة علی زوجها: حاملہ نہ ہونا۔	الجَاهِلِيَّة: نادانی کی حالت۔ ملک عرب میں اسلام سے پہلے کی بت پرستی۔ جاہلیت کا اطلاق عرب کے اُن احوال پر ہے جو اسلام سے پہلے تھے۔ الجَهْلُوم: ناتجربہ کار جاہل۔ مَجْجُوبَة: السجھل وَالسجھلَة: انگاری ہلانے کی

آفاق کو طے کرنے والا ہے اس کا سفر اس کو پھینکا رہتا ہے۔

الجَبِيَّة: جواب کی کیفیت۔

الجَبَابُ: جَانِبُ الْعَيْنِ: شير۔

الْجَبَابِيَّة: پھیلنے والی خبر۔ کہا جاتا ہے "هل عندك من جبالية خبر": کیا تمہارے نزدیک کوئی ایسی خبر ہے جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہوتے ہوئے تمہارے پاس پہنچی ہو۔

الْمَجْوُوبَةُ: جواب۔

جُحُوتٌ أَوْ قُتُبٌ كَلْكُونًا أَوْ قُتُبٌ هِنْدِيَّةٌ: جنوبی ایشیا میں پائی جانے والی پٹ سن جس سے بوریاں بنائی جاتی ہیں اور رسیاں بنائی جاتی ہیں۔

المَجْوُوبُ: ڈھال۔

المَجْوُوبُ: پھاڑنے والا آلہ۔

جُحُوتٌ (س) جَوْحًا: اوپر سے بڑے اور نیچے سے لگے ہوئے پیٹ والا ہونا۔ صف (أَجْوُوتٌ) مَوْنُوتٌ جَوْحًا: جُحُوتٌ۔

الجُحُوتُ وَالْجَوْحَاءُ: بکری کا اوجھ۔

جَحَاحٌ (ن) جَوْحًا: زاہ راست سے ہٹ جانا۔ (جساحہ جَوْحًا وَجِيَاخَةً وَأَجَاخَهُ وَاجْتَاخَهُ): جڑ سے اُکھیرنا۔ ہلاک کرنا۔

السَّحَابِيَّةُ: ہلا۔ ہلاکت۔ بڑی مصیبت۔ سنہ جانحة: خشک سال۔ جَحَانِحَاتٌ وَجَوَانِحٌ۔

الْأَجْوُوحُ: کشادہ۔ مَوْنُوتٌ جَوْحًا: جُحُوحٌ التَّجْوُوحُ: تزیوز۔

التَّجْوُوحَةُ: جتنی مصیبت۔

جَاخٌ (ن) جَوْحًا وَجَوْحًا: السَّيْلُ الْوَادِي: کناروں کو بہا لے جانا۔ جَوْحُهُ: بچھاڑنا۔ اُکھیرنا۔

تَجْوُوحٌ: بچھاڑا جانا۔ اُکھیرنا۔ تَجْوُوحَتِ الْبَنُو: گر جانا۔ الْقَرْحَةُ: زخم کا پھٹنا اور بہہ پڑنا۔

الجُحُوحُ: اولوں کا بنا ہوا کپڑا۔ جُحُوحًا: الجُحُوحَةُ: اونی کپڑے کا ٹکڑا۔ گڑھا۔

جَادٌ (ن) جَوْدَةٌ وَجُودَةٌ: عمدہ ہونا۔ اچھا بنانا۔ (.....) وَجُودٌ أَوْ جَوْدٌ: التَّمَرُّسُ: تیز رفتار ہونا۔

جَادَةٌ (ن) جَوْدًا: بختش میں غالب ہونا

..... هَالَهُ الْهَوَى: غالب ہونا۔ (..... جَوْدًا) عَلَيْهِ: بختش کرنا۔ صفت جَوَادٌ: بالمال: خرچ کرنا..... بِنَفْسِهِ: جان دینا۔ کہا جاتا ہے "إِنِّي لِأَجَادُ إِلَى الْقَائِكِ" میں تمہاری ملاقات کا مشتاق ہوں۔ (..... جَوْدًا وَجُودًا) الْعَيْنُ: بہت آنسوؤں والی ہونا

..... الْمَطَرُ: بہت بارش ہونا۔ صفت (جائذ) ج جَوْدٌ۔

جَيْدَتٌ: الارضُ: زمین پر کثیر بارش ہونا۔ جَيْدَةُ الرَّجُلِ: ہلاکت کے قریب ہونا۔ پیاسا ہونا۔

جَوْدٌ: الشَّيْءُ: خوبصورت بنانا۔ عمدہ بنانا..... فِي عَدْوِهِ: تیز دوڑنا..... الْقَارِيءُ: فَنٌ تَجْوِيدُ كَلِمَاتٍ: پڑھنا۔

جَاوِدَةٌ مُجَاوِدَةٌ: بختش کرنے پر فخر کرنے میں مقابلہ کرنا۔

أَجَادَ: اچھا بنانا..... بِالْوَلَدِ: نِيَاضٌ بِحَدِّ كَابِأٍ هَوْنَا: أَجَادَةُ النَّقْدِ: کھرے کے دینا۔ (وَأَجْوَدُ) الشَّيْءُ: عمدہ بنانا۔ أَجَادَةُ الرَّجُلِ: قَلٌّ: اُکھیرنا۔ اُجَيْدَتِ الْارِضُ: زمین پر کثیر بارش ہونا۔

تَجْوَدٌ: عمدہ چیز کا انتخاب کرنا..... فِئْسِي صِنْعَتُهُ: صنعت میں عمدگی سے کام کرنا۔

تَجَاوَدَ الْقَوْمُ: یہ دیکھنا کہ حجت کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔ کہا جاتا ہے "هَمَّ يَتَجَاوَدُونَ الْحَدِيثَ": وہ دیکھتے ہیں کہ حدیث کے لحاظ سے کون بہتر ہے۔

اسْتَجَادَهُ: عمدہ سمجھنا۔ اسْتَجَادَ الْاِمِيرُ: بختش طلب کرنا۔

الْجَادُ: باطل۔ کہا جاتا ہے "وقموا فی ابی جاد" وہ لوگ باطل میں مبتلا ہو گئے۔

الجُودُ: بھوک۔

الجُودُ: مَسٌّ: الجُودُ وَالْمَطَرُ: الجُودُ:

بہت بارش۔

الجُودَةُ الْجَوَادَةُ: پیاس۔

الجُودُ: پیاس کا انتہائی مرتبہ جو باعثِ ہلاکت ہو۔

الجُودُ: عمدہ۔ جُودًا: وَجَّ جِيَادَاتٍ وَجِيَانِدٍ: (جِيَانِدٌ اَصْلٌ فِي جِيَادٍ هُوَ وَاوٌ كُوَاهِرُهُ) سے بدل لیا گیا ہے اور یہ نشانہ ہے (الجُودُ: جَنِي) (مُذَكَّرٌ مَوْنُوتٌ) کہا جاتا ہے رَجُلٌ جَوَادٌ وَامْرَأَةٌ جَوَادَةٌ وَاجَاوِدٌ وَاجَاوِيدٌ وَجُودٌ وَجُودَةٌ وَجُودَاءُ: فَرَسٌ جَوَادٌ: تیز رفتار گھوڑا۔ جُودًا: اُجَيْدًا وَاجِيَادًا وَاجَاوِيدًا: کہا جاتا ہے "بَسْرَتْ إِلَيْهِ جَوَادًا" میں اس کی طرف دوڑتا ہوا چلا۔ "وَيَسْرُنَا عَقِبَةً جَوَادًا وَعَقِبَتَيْنِ جَوَادَتَيْنِ وَعَقَابًا جِيَادًا": ہم دور کی کھائی یا دو کھائی یا کھائیوں پر چلے۔

الجُودُ: بڑا فیاض۔

الْأَجْوَدُ: اسم تَفْضِيلٍ: مَوْنُوتٌ جَوْدَاءُ: (خلاف قیاس) جُودًا وَاجَاوِيدًا۔

التَّجَادِي: زعفران۔

التَّجْوِيدُ: فِي الْقِرَاءَةِ: تَوَاعُدُ فَنٍّ قَرَأَتْ كَ: مطابق پڑھنا۔

التَّجَاوِيدُ: مفید بارشیں (جمع ہے اس کا واحد نہیں)

رَجُلٌ أَوْ شَاعِرٌ (مُجِيدٌ وَمَجْوَادٌ): عمدہ کام کرنے والا مرد۔ جیدا شعرا کہنے والا شاعر۔

الْمَجْوُودُ: پیاسا۔ قریب ہلاکت۔

جَاوَزَ (ن) جَوْرًا: عَنِ الشَّيْءِ: بہت جانا۔ کہا جاتا ہے "جَاوَزَ عَنِ الطَّرِيقِ" وہ راستہ سے ہٹ گیا..... عَلَيْهِ: ظلم کرنا۔ صفت (جَاوِزٌ) جُورًا: جَوْرَةٌ وَجَوْرَةٌ وَجَوْرَةٌ وَجَوْرَةٌ: فریادیں جانا۔

جَوْرَةٌ: ظلم کی طرف منسوب کرنا۔ بچھاڑنا۔ جَوْرُ الْبِنَاءِ: گرا دینا۔

جَاوَزَ مَجَاوِرَةً وَجَوَارًا وَجَوَارًا: پڑوس

میں رہنا..... الْمَسْجِدُ: اعتکاف کرنا۔

اجازة إجازة. من العذاب: بجانا۔
 جھڑانا۔ پناہ دینا۔ فلانا: فریاد رکھنا۔
 ہ عن کذا: پناہ دینا۔ المتاع: حفاظت
 کے لئے برتن میں رکھنا۔
 تجوز: الرجل: پچھاڑا جانا۔ علی
 القراش: پہلو پر لیٹنا۔ البناء: گر جانا۔ کہا
 جاتا ہے "تجوز خباء الليل" یعنی تاریکی
 چھٹ گئی۔
 تجاوز واجتوز: القوم: ایک دوسرے کے
 پڑوس میں رہنا۔
 استجاز: فلانا وبه: فریاد رکھنا۔ پناہ
 لینا۔ استجاره من فلان: پناہ چاہنا۔
 استجوزة: ظالم پانا۔
 الجوز: بہت گہرا پانی۔
 الجوز: کسان۔
 الجوز: پڑوس۔ کہا جاتا ہے "اقسام فی
 جوارہ" اس نے اس کے پڑوس میں
 اقامت کی۔ امان و مذمہ داری۔ کہا جاتا ہے
 "ہو فی جوارى": وہ میرے امن اور ذمہ
 داری میں ہے۔
 الجوز: پڑوس۔ پناہ دینے والا۔ پناہ لینے
 والا۔ جبران۔ وجیزة و جوار و أجوار و
 (جوار النهر): نیلو فر کے مشابہ ایک قسم کی
 نباتات۔
 الجوزة: پڑوس۔ بیوی۔ سوکن۔ ج
 جازات الجائر: ظالم۔ بڑا ڈول۔
 الجوز: مصل۔ ظلم۔
 الجوز: من الغيث: بہت کڑک والی
 بارش۔ مال جوز: بہت مال۔ بازل جوز:
 زور سے بلبلانے والا اونٹ۔
 الجوز: گہرا۔
 جاز النهر: پانی میں پیدا ہوئی بوٹی۔
 جوزبة: پانچا۔ پہننا۔
 تجوزب: پانچا۔ پہننا۔
 الجوزب: پانچا۔ ج جوارب
 وجواربة: عوام الکلسة اور القلشينة کہتے
 ہیں۔

الجوز: باجرہ۔
 جاز (ن) جوز او جوزو و جوزا
 ومجازا. المكان وبالمكان: چلنا۔
 المكان: گزر جانا۔ البيع: بیع کا پورا ہونا
 (جوزا) الامر: جائز ہونا۔ کہا جاتا ہے
 "جازه ان يفعل كذا" اس کے لئے ایسا
 کرنا ممکن ہے۔ الدرهم: راجح ہونا۔
 السهم الى الصيد: شکار سے ہٹ کر نکل
 جانا۔ عن الصيد: شکار کو چھوڑ کر نکل
 جانا۔
 جوز: الامر: جائز ٹھہرنا۔ الحكم: جائز
 سمجھنا۔ وایہ: جاری کرنا۔ الابل: آگے
 سے ہانکنا یہاں تک کہ سب گزر جائیں۔
 الدرهم: راجح کرنا۔
 جاوز: المكان: آگے بڑھ جانا۔ عن
 الذنب: درگزر کرنا۔ الرجل: اجازت
 دینا۔
 اجازة اجازة. الشئ: جائز کرنا۔ الراى:
 نافذ کرنا۔ الرجل: اجازت دینا۔ اجازة
 بالف درهم: انعام دینا۔ علی اسمہ:
 نام کا ٹھپا بنانا۔ الموضوع: آگے بڑھ جانا۔
 القاضى البيع: نافذ کر دینا۔ اجازة العقبة:
 گھالی سے گزاردینا۔
 تجوز: فی الامر: برداشت کرنا۔ چشم پوشی
 کرنا۔ فی الصلاة: اختصار کرنا۔ فی کذا:
 تھوڑی چیز پر اکتفاء کرنا۔ عنہ: چشم پوشی
 کرنا۔ معاف کرنا۔ فی الکلام: مجاز بولنا
 (الدرهم: کھوئے قبول کر لینا۔
 تجاوز: عنہ: چشم پوشی کرنا اور معاف کرنا۔
 فی الشئ: افراط کرنا۔
 اجناز: چلنا۔ بالمكان: گزرنا۔ من مكان
 الى آخر: عبور کرنا۔
 استجاز استجازة: اجازت طلب کرنا۔
 الامر: جائز سمجھنا۔
 الجائز: فا۔ نافذ۔ روا۔ مباح۔ دو
 دیواروں کے اوپر رکھی ہوئی لکڑی۔ ج
 جوائز وجوزان وجوزان

واجوز واجوزة۔
 الجائزة: الجائز: کامونٹ۔ عطیہ۔
 انعام۔ پانی کا ایک گھونٹ۔ ج جوائز۔
 جوائز الاشعار والامثال: وہ اشعار یا
 کہاوٹ جو ایک شہر سے دوسرے شہر تک پھیل
 جائیں۔
 الجوز: مصل۔ اخروٹ کا درخت۔
 اخروٹ۔ واحد جوزة. الجوزة: پانی کی
 ایک مرتبہ پینے کی مقدار۔
 جوز ہندی: ناریل۔
 جوز: الشئ: چیز کا وسط اور اکثر حصہ۔ کہا
 جاتا ہے "قطعو اجوز الفلاة" انہوں نے
 جنگل کا بڑا حصہ طے کر لیا۔ "مضى
 جوز الليل" رات کا بڑا حصہ گزر گیا۔ ج
 اجواز۔
 الجوزاء: آسمان کے ایک برج کا نام کالی
 بکری جس کے وسط میں سفیدی ہو۔
 الجوز: مصل۔ پروانہ راہداری۔ عوام اس
 کو تذکرة السفر یا البسبورط کہتے
 ہیں۔ ج اجوزة: پانی کی اتنی مقدار جس
 کو مسافر اپنے ساتھ لے اور دو چشموں کے
 درمیان کافی ہو۔
 الجوز: پیاس۔
 الجوزة: کنارہ۔ گوشہ۔ وادی کا کنارہ۔
 پانی کی ایک مرتبہ پینے کی مقدار۔ ج
 جیز و جیز۔
 الاجازة: اذن۔ اجازت۔ عند
 المحديثين: روایت کی اجازت لفظاً یا
 کتابتاً۔
 الاجازة: اللئسان: سند۔ بی اے
 (گریجویشن) کی سند۔ محدثین کے نزدیک
 حدیث کو زبانی یا تحریری روایت کرنے کی
 اجازت۔
 الجوز: ایک قسم کی منتش چادر۔ ج
 تجاویز۔
 المجاز: لفظ جو اپنے موضوع لہ کے علاوہ کسی
 دوسرے معنی میں کسی مناسبت سے استعمال کیا

جائے۔ (..... والمجازة): راستہ۔ مجازة
النهر: پل۔ المجازة: بہت اخروٹ والی
زمین۔ کہا جاتا ہے "ارض مجازة"
جوز القوقل: مندی کھجور کی ایک قسم۔
جسوزة العنق: گردن کے شروع میں ایک
زخم ابھرا ہوا۔
المجيز: فا۔ ولی۔ امور تميم کا منتظم۔ غلام
جس کو تجارت کی اجازت دی گئی ہو۔
مجوز: دوکانوں والا۔ موسیقی۔
جاس (ن) جسوسا و اجناسا: اجنبی
الشئی: بہت اشہاک سے تلاش کرنا۔
(..... جسوسا و جسوسا) القوم بین البيوت
والسدور: گھروں کے درمیان فساد پچا دینا
اور ان کے اندر مال متاع کو ڈھونڈنا۔
جاساه: خوشی کرنا۔
الجواس: قوم کے درمیان فساد پچانے والا
شیر۔
جوسة الناظر: تنکلی۔
الجوسق: محل۔ ج جواسق و جواسیق۔
جاش (ن) جوشا: پوری رات چلنا۔
تجوش: اللیل: کچھ حصہ گزر جانا..... فی
الارض: داخل ہونا۔
الجوش: مہس۔ سینہ۔ کہا جاتا ہے "مضی
جوش من اللیل": رات کا اگلا حصہ یا کچھ
حصہ گزر گیا۔
الجوشن: سینہ۔ زرہ..... من اللیل: رات
کا وسط یا ابتدائی حصہ۔ ج جواشن۔
جساظ (ن) جوظا و جوظانا: بتکمر سے
چلنا۔
جوظ: زچ ہونا بے صبر ہونا۔ (و ت جوظ):
کوشش کرنا۔
الجواظ: تنگ دلی۔ بے صبری۔
الجواظ: بتکمر سے چلنے والا۔ اجڈ۔ بہت
کھانے والا۔
الجواظة: بمعنی جواظ: تا مبالغہ کے لئے
ہے۔
جاء (ن) جوعا و مجاعا: بھوکا ہونا۔

صفت (جسابع و جوعان) مؤنث جماعۃ
و جوعی ج جیاع و جوع..... الیہ:
مشاق ہونا۔
جوعہ تجوینعا و اجاعہ اجاعا: بھوکا
رکھنا۔ خوراک روکنا۔ کہا جاتا ہے "اجاع
قیدہ" اس نے اس کی ہانڈی کو نہیں بھرا۔
تجوع: بتکلف بھوکا بننا۔
استجاع استجاعا: ہر وقت کچھ نہ کچھ
کھاتے رہنا۔ کسی چیز کو کھانا اور سیر نہ ہونا۔
الجوع و المجاعا: بھوک۔ الجوع
الکلیبی او الجوع البقری: معدہ کی ایک
بیماری کا نام جس میں آدمی شکم سیر نہیں ہوتا
اور اگر ہو جاتا ہے تو جلدی بھوک لگ جاتی
ہے اور کہا جاتا ہے "غمام مجاعا"
او مبعوعا: بھوک کا سال۔ ج مجاع و ع.
الجوعا: اسم مرۃ۔ قبیلہ کا خالی ہونا۔
جوف جوقا: کھوکھلا ہونا۔
جافہ (ن) جوقا: گہرا کرنا..... ہ الطعنة
:جوف میں نیزہ مارنا۔
اجافہ الطعنة وبالطعنة: جوف میں نیزہ
مارنا..... الباب: بھینر دینا۔
جوفہ: کھوکھلا کرنا۔ گہرا کرنا۔ جوف میں
سے سب کچھ نکال لینا۔
تجوف: کھوکھلا کرنا۔ (تجوفہ و اجنافہ):
جوف میں داخل ہونا۔ کہا جاتا ہے "اجناف
الوحشی کناسہ و تجوفہ" وحشی جانور
اپنے بھٹ میں داخل ہو گیا۔
استجاف و استجوف استجافا: الشئی:
کشادہ ہونا۔ الشئی: کھوکھلا پانا۔
الجوف: مہس۔ پیٹ..... من البيت:
اندرونی حصہ۔ ج اجواف۔
الجوف: مہس۔ کشادگی۔
الجائف: فا۔ جوف تک پہنچنے والی چیز۔
مؤنث جائفہ۔ الجائفہ: نیزہ کی مار جو
جوف تک پہنچے۔ ج جوائف۔
الاجوف: کھوکھلا۔ کشادہ جوف والا۔ مؤنث
جوفاء ج جوف: "الجوفاء من البلاء":

کشادہ ڈول..... من القضاء او المشجر:
اندر سے کھوکھلا۔ الفعل الاجوف: وہ فعل
جس کا میں کلمہ حرف علت ہو۔ جیسے قال باع
خاف اجوف: بڑا شیر۔
المجوف: بڑے جوف والا۔
المجوف: کھوکھلا۔ رجل (مجوف
و اجوف و مجوف): بزدل۔
المستجاف: کشادہ جوف والا۔
الجواف: ایک قسم کی مچھلی۔
جوقل: اشخاص یا اشیاء کو بذر یہ طیارہ منتقل
کرنا۔
جوق (س) جوقا۔ الوجه: نیزہ منہ
والا ہونا۔ صفت (اجوق و جوق) مؤنث
جوقا ج جوق۔
جوق: القوم جمع کرنا..... علیہ: شور
مچانا۔
تجوقا: اکٹھا ہونا۔
الجوق ج اجواق و (الجوقا): لوگوں کی
جماعت۔
الاجوق: موٹی گردن والا۔ اجوق الفك:
تھکے ہوئے جڑے والا۔
المجوق: نیزہ جڑوں والا۔
جال (ن) جولا و جولوا و جولا
و جولانا و جیلانا و جول تجولا۔ فی
المكان: چکر لگانا۔ گھومنا۔ جال الشئی:
پندرنا۔ جال القوم جولہ: ٹکٹ کھانے
کے بعد حملہ کرنا۔ جول الارض: زمین میں
بہت چکر لگانا۔
جاولہ مجاولہ: ایک دوسرے کو دھتکارنا۔
ایک دوسرے کو ہٹانا۔
اجال: الشئی و الشئی: گھمانا۔
السيف: تلوار سے کھیلنا اور ادھر ادھر گھمانا۔
تجاول: القوم فی الحرب: ایک دوسرے
کے مقابلہ میں چکر لگانا۔
اجتال اجتالا: گھومنا..... القوم: ارادہ
سے پھیر دینا..... منہم جول: پندرنا.....
افوالہم: لے جانا۔

النجال. الغبار: بلند ہونا اور پھیلتا۔

استجبال استجالة: اموالہم: لے جانا۔

النجول: بھس۔ گھوڑوں یا چوپایوں کا گلد۔

رتسج احوال (.....) والنجول: مٹی خس

کو ہوا سطح زمین پر ادھر ادھر کرے۔

النجال والنجول: قبر یا کنوئیں کی دیوار پہاڑ

کا پہلو۔ نجول القبر: قبر کا ارد گرد۔ کہا جاتا

ہے "مالہ نجال او نجول" اس کا پختہ ارادہ

نہیں نج جوال و نجوال و جوال و جوال و جوال و جوال

و انجوال۔

النجوالہ من الشئ: چیز کا بہتر حصہ۔

النجولان والنجولان: مٹی جس کو ہوا ادھر

ادھر کرے۔

النجولان: بھس۔ مال کا چھوٹا اور ردی حصہ

جولان الہموم: غم کی ابتدا۔

النجوال والنجوالہ: بہت چکر لگانے والا۔

کہا جاتا ہے "ہو جوالہ جوالہ" وہ بہت

زیادہ چکر لگانے والا ہے اور مقامات کو طے

کرنے والا ہے۔

الانجول: اسم تفضیل۔ یوم انجول: بہت غبار

کا دن۔

الانجول: بہت چکر لگانے والا گھوڑا۔

المنجال: چکر لگانے کی جگہ۔

المنجول: ڈھال۔ پازیب۔ تعویذ۔ ہار

میں چاندی کا بلال۔ کرتی۔ گورخر۔

چاندی۔ لکڑی کا بڑا پیالہ۔ تالاب۔

المستجیل: بے وقوف۔

نجام (ن) جومًا: اچھی یا بُری چیز کا طلب

کرنا۔

النجام: پیالہ۔ نجامات و انجوم و انجوم

و انجوم۔

النجونمة: جام کی تفسیر۔

نجان (ن) نجونا: کالا ہونا۔

نجون۔ باب العروس: دلہن کے دروازہ پر

سفیدی بھیرنا۔ باب الميت: سیاہ کرنا۔

النجون: بھس۔ سفید۔ سیاہ۔ سرخ خالص

سبزی جس کی سبزی سیاہی مائل ہو۔ دن حسن

النجیل والابیل: بہت کالا۔ نجون۔

النجونة: غروب کے وقت کا آفتاب۔

تارکول ملا ہوا مکان۔ کوند۔

النجونة: چیزے سے منڈھی ہوئی ٹوکری۔

نجون۔

النجوناء: آفتاب۔ ہانڈی۔ سیاہ اونٹنی۔

النجونی: قنار پرندہ کی ایک قسم جس کا سینہ اور

پازو کالا ہوتا ہے۔

نجاة (ن) نجوها: الرجل بالمکروه:

نا پسند طریقہ سے پیش آنا۔

نجوهة نجویہا و اناجہة اناجہة: ضاحب

مرتبہ بنانا۔

نجوة: بڑا ہونا۔ حکمت بڑا بننا۔

النجاه والنجاهة: قدر۔ شرف۔

بلندی۔ مرتبہ۔

النجوهر: وہ چیز جو قائم بالذات ہو اور محل کا

متحاج نہ ہو۔ اس معنی میں یہ عرض کا مقابل

ہے۔ ہر وہ پتھر جس سے مفید چیز نکالی

جائے۔ واحد (جسورہ) ج جو اھر۔

جوهر الشئ: چیز کی اصلیت۔ جوهر

السيف: تلوار کا جوہر۔ الجوهر الفرد: وہ

چیز جو قابل انقسام نہ ہو۔ الجوهر العلویة:

افلاک۔ ستارے۔ ارواح۔

النجوهری: جوہر کی جانب منسوب۔ لازم و

ضروری۔ اس معنی کے لحاظ سے اس کا مقابل

عرضی ہے۔ جوہر کا بنانے والا اور بیچنے والا۔

نجوی تجویة: السقاء: مشک میں پیوند

لگانا۔

النجو: آسمان وزمین کا درمیانی حصہ۔ کشادہ

وادی۔ کشادہ میدان۔ نجوا البیت: گھر کا

اندرونی حصہ نجوا الماء: زمین کا وہ حصہ جو

پانی کے لئے کھودا جائے۔ نجو کسل شئ:

اندرونی حصہ۔ نج جواء و انجواء۔

النجوانی: نجو: کی جانب منسوب۔ اس کا

تفضیل بڑائی ہے۔ دیکھئے لفظ بڑائی۔

النجوة: مشک کا پیوند۔ زمین کا سخت ٹکڑا۔

پھاڑ وغیرہ کا ٹکڑا۔ لوہے کا رنگ۔ گندم

گول رنگ۔

نجوی (س) نجوی: عشق یا غم کی وجہ سے

جلن لائق ہونا..... الماء: بد بودار ہونا۔

الشئ: ناپسند کرنا۔ نجوت نفسه من البلد

وعن البلد: ناموافق ہونا۔

نجای مجاواة: بالابل: پانی پر بلانا۔

انجوسی: البلد: اقامت ناپسند کرنا۔

(وانجوسی) الطعام: ناپسند کرنا۔

النجوی: بھس۔ غم یا عشق کی وجہ سے سوزش

سینہ کا ایک مرض۔ مرض کی طوالت۔ بتلائے

سوزش عشق۔

النجواء: کشادہ وادی۔ زمین کا اندرونی

حصہ۔ چرواہے کا تھیلا۔ وہ چیز جس پر ہانڈی

رکھی جائے۔

النجوی: بد بودار۔ عاشق۔ بتلائے سوزش

عشق۔

النجوی: تنگ دل..... مونت نجویہ

النجیة: پانی وغیرہ جبکہ بد بودار ہو جائے۔

پانی جمع ہونے کی جگہ۔ نج جمی۔

جاء نجی و نجوة مجینا و منجینة و نجینا

و نجینة: آنا۔ بہ۔ لانا۔ جاء ة و جاء الیہ:

آنا۔ الشئ: کرنا۔ صفت (جاء) مونت

جانیة۔

جآنی و جآنی فنجنتہ: کثرت آمد میں

مقابلہ کرنا۔

آجاء ة: لانا۔ آنے کو لازم و ضروری ٹھہرانا۔

النجینة: بھس۔ ایک مرتبہ کی آمد۔ پیپ و

خون۔ گلڑا جس سے جوتہ میں پیوند لگایا

جائے۔

النجینة: آنا۔ نج جیات۔

جباب (ض) ججیا۔ البلاد: طے کرنا۔

القمیص: گریبان بنانا۔

جیب: القمیص: گریبان بنانا۔

النجیب: من القمیص: گریبان۔ دل و

سینہ۔ کہا جاتا ہے "ناصح النجیب" امین و

صادق نجیب الارض: زمین میں داخل

ہونے کی جگہ۔ نج جیوب۔

الجَبِيضُ: داکھیں بائیں جھکاؤ۔ الجَبِيضُ وَالْجَبِيضِيُّ: تکتیر و ضرور کی چال۔ جَاظُ (ض) جَبِيضَانَا: چلنے میں تکتیر کرنا۔ صفت (جَبِيضًا) بِحَمَلِهِ: پوئل چلنا۔ الجَبِيغَرُ: بچو۔ الجَبِيغَمُ: بھوکا۔ جَبَأْتُ (ض) جَبِيضًا وَجَبِيغَةً وَتَجَبَيْغْتُ وَاجْتَبَأْتُ وَانْجَبَأْتُ: الجَبِيغَةُ: بدبودار ہونا۔ الجَبِيغَةُ: مینت کا بدبودار جثہ۔ جَبِيغٌ وَجَبِيغٌ وَجَبِيغٌ الجَبِيغَرُ: قوی شیر۔ جَبِيغَلٌ: نام ماہ ذی القعدہ۔ الجَبِيغَلُ: لوگوں کا ایک گروہ۔ صدی۔ ایک زمانہ کے لوگ۔ جَبِيغَالٌ وَجَبِيغَانٌ۔ الجَبِيغَلُ: چاند۔ الجَبِيغَرُ: ایک قسم کی کہسی۔ الجَبِيغَلُ وَالْجَبِيغَلَةُ: انگارہ جلانے کی کلڑی۔ کریشی۔ صَفَاةٌ جَبِيغَلٌ: بڑا پتھر۔ الْجَبُوذِيَّةُ: (یونانی لفظ) زمین کی پیناکش کا علم۔ الْجَبُوذِيَّةُ: زمین کے طبقات اس کی طبعی مابیت کے اسباب کا علم۔ (جیا لو جی)	الْحَرْبُ بَيْنَهُمْ: گھمسان کی جنگ شروع ہونا۔ الْعَيْنُ: آنسو بہانا۔ الْوَادِي: موج مارنا۔ الْمِيْرَابُ: پرنا لہ کا خوب اچھی طرح بہہ پڑنا۔ النَّفْسُ: جی مثلاً نا۔ نَفْسُ الْجَبَانِ: بھاگنے کا ارادہ کرنا۔ جَبِيشٌ. الْجَبِيشُ: فوجوں کو جمع کرنا۔ تَجَبِيشٌ. الْقَوْمُ: اکٹھا ہونا۔ تَجَبِيشْتُ نَفْسِي: جی مثلاً نا۔ اسْتَجَبَشْتُ. الْجَبِيشُ: جمع کرنا۔ الْاَمِيْرُ: امیر سے مدد اور لشکر طلب کرنا۔ الْقَوْمُ: مدد دینے پر راجحیت کرنا۔ الْمَجَانِشَةُ: نفس۔ الْجَبِيشَةُ. جَبَشُ: کا اسم مرآة۔ جَبِ جَبِيشَاتُ. الْجَبِيشُ: مص۔ لشکر۔ جَبِيشُ الْجَبِيشُ: ایک قسم کی لمبی نباتات کا نام ہے۔ الْجَبِيشُ: متحرک و مضطرب۔ جَبَاضٌ (ض) جَبِيضًا وَجَبِيضًا تَجَبِيضًا عند: مخرف ہونا۔ ہٹ جانا۔ جَبَانِيَّةٌ: فخر کرنے میں مقابلہ کرنا۔	الْجَبِيْبُ وَالْجَبِيْبَةُ. عند العوام: بھلی۔ پاکٹ۔ جَبِيْبٌ. جَبِيْبٌ. جَبَاحٌ يَجْبِيحُ جَبِيْحًا. السَّيْلُ الْوَادِي: کناروں کو بہا لے جانا۔ جَبَادُوٌ جَبِيذٌ يَجَادُوُ جَبِيْذًا: خوبصورت اور لمبی گردن والا ہونا۔ صفت (أَجْبِيْدٌ) مَوْنَتْ جَبِيْدَاءٌ وَجَبِيْدَانَةٌ. جَبِ جَبُوْدٌ اور کبھی جَبِيْدٌ: گردن کی صفت میں بھی واقع ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے "عنق أجيد". الْجَبِيْدُ: گردن۔ جَبِ أَجِيَادٌ وَجَبِيْدٌ. جَبِيْرٌ: الحوض: بچ کرنا۔ جَبِيْرٌ: حرف ایجاب بمعنی نعم: یعنی ہاں۔ الْجَبِيْرُ: بچ۔ الْجَبِيْرُ: نہ بچھا چونکہ۔ (.....) وَالْجَبَاوِيْرُ): غصہ یا بھوک کی وجہ سے سینہ کی سوزش۔ حَوْضٌ (مُجَبِيْرٌ): بچ گیا ہوا حوض۔ گہرا حوض۔ جَبَاشْتُ (ض) جَبِيْشًا وَجَبِيْشَانَا وَجَبِيْشَانَا. الْقَدْرُ: اُبلنا..... الْحَرُّ: جوش مارنا..... الصَّدْرُ: غصہ سے جوش میں آنا۔
---	--	--



ح : الحاء : بنیادی حروف میں سے چھٹا حرف ہے۔ یہ حروفِ مطلق میں سے ہے۔

حیة (ض) حیًا و حیًّا الشئی: رغبت کرنا۔

حَبّ (س) حَبَّبَ (ک) الیہ: محبوب ہونا۔ حَبَّبَهُ الشئی: محبوب بنانا اور کہا جاتا ہے "حَبَّبَنی اِیّاهُ" اس نے مجھ کو اس کا محبوب بنایا۔ حَبَّبَ الْقُرْبَنَةَ: بھرتا (حَبَّبَ وَاَحَبَّ) الزرع: دانے دار ہونا۔

حَابُّہ مُحَابَبَةٌ و حَبَابًا: باہم محبت کرنا۔ محبت ظاہر کرنا۔

أَحَبُّہ: محبت کرنا۔ یہ سب سے زیادہ مستعمل ہے۔ صفت فاعلی۔ (مُحَبَّبٌ) اور صفت مفعولی (مُحَبَّبٌ و مُحَبَّبٌ)

تَحَبَّبَ. الیہ: محبت و دوستی ظاہر کرنا۔ تَحَبَّبَ مِنَ الشَّرَابِ: بھرنے سے منکفی کی مانند پھول جانا۔

تَحَابَّ. القوم: ایک دوسرے سے محبت کرنا۔

اِسْتَحَبَّہ: محبت کرنا۔ اچھا سمجھنا۔ کہا جاتا ہے "اِسْتَحَبَّ الْکُفْرَ عَلَی الْاِیْمَانِ" اس نے کفر کو ایمان پر فضیلت دی۔

الْحَبَّبُ نَجْ حَبُوبٌ و حَبَابٌ: دانہ۔ واحد (حَبَبَةٌ) نَجْ حَبَابَاتٍ. حَبَّبَ الْغَمَامَ: اول۔

حبة القلب: دل کا دانہ یا روح۔ الحَبَبَةُ: دو (۲) ہر کے برابر ایک وزن کا نام۔ دینار کا سواہر ہوا حصہ۔

الحَبَبَةُ الْخَضْرَاءُ: بُنْ: (ایک دو کا نام)

الحَبَبَةُ السُّودَاءُ: کلونجی۔

السَّمْحِيَّةُ: مرغوب چیز کی طرف طبیعت کا میلان۔

الْحَبْبُ: مص۔ دوست۔ عاشق۔ محبوب۔ نَجْ أَحْبَابٌ و حَبَابٌ و حَبَبَةٌ و حُبٌّ و حُبُوبٌ.

الْحَبُّ: مص۔ بڑا گھڑا یا منکا۔ نَجْ حَبَابٌ و حَبَبَةٌ و أَحْبَابٌ.

السَّمْحِيَّةُ: انور کا بیج۔ معشوق۔ معشوقہ۔ نَجْ حُبٌّ: کہا جاتا ہے "هَذَا حُبَّتْکَ" یہ وہ چیز ہے جس کا دل چاہتا ہے۔ "و نعم و حُبِّيَّةٌ و سَمْرَاقَةٌ" جیسا کہ کہا جاتا ہے "حُبًّا و کَرَامَةً".

الْحَبَبُ: دانتوں کی ہمواری۔ (..... و الْحَبَابُ) بلبلہ۔ حَبَّبَ الْمَاءَ اَو الرَّمْلَ و حَبَّبَهُ: پانی یا ریت کا بڑا حصہ۔

الْحَبَابُ: انتہا۔ کہا جاتا ہے "حَبَابِکَ اِنْ تَفَعَّلَ کَذَا" تمہاری انتہائی کوشش یہ ہے کہ تم ایسا کرو۔

الْحَبَابُ: دوستی۔ محبت۔ محبوب۔ سانپ۔ اُمُّ حَبَابٍ: دنیا۔

الْحَبَابَةُ: ایک قسم کا سیاہ آبی کبیرا۔ نَجْ حُبَابٌ. الْحَبِيبُ: عاشق۔ معشوق۔ نَجْ أَحَبَّةٌ. الْحَبَابُ: حب۔ کا اسم مبالغہ۔ گھڑوں اور منکوں کا بنانے والا۔ یا بیچنے والا۔

السَّمْحِيَّةُ: نَجْ۔ کہا جاتا ہے "اِمْرَاةٌ مَحَبَّةٌ لَزَوْجِہَا و مُحِبٌّ لَدُہَا".

حَبَّبَہ (ض) حَبَّبَ. بِالْمَعْصَاءِ: لاشی سے مارنا۔ (..... و أَحَبَّبَ) اِچَاکَ ظَاہِرٌ ہونا۔ قریب ہونا۔ ظاہر ہونا۔

حَبِجٌ (س) حَبَّبًا و حَبِجٌ (ف) حَبَابًا: سو بے ہوئے پیٹ والا ہونا۔ صفت (حَبِجٌ) الْحَبِجُ: مص۔ میٹلیاں جو سدرہ کی شکل میں ہو جائیں۔ اُونٹ کی کمر کا داغ۔

السَّجِجُ: لوگوں کا گروہ۔ لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ۔

حَبَّحَبَ حَبَّحَبَةً. الْمَاءُ: پانی کا آہستہ بہنا..... الْفَارُ: آگ جھڑکنا۔

الْحَبَّحَابُ: پست قدم۔ بدنما۔ بد شکل۔ حَبَابِجٌ.

الْحَبَابِجُ و اُمُّ حَبَابِجٍ: جگنو۔ وہ چیز جو جگنو کی دم میں آگ کی مانند دکھائی دے اور اسی سے نَارُ الْحَبَابِجِ ہے جس کو ضعف و کمزوری میں بطور مثل کے استعمال کرتے ہیں۔ نَارُ الْحَبَابِجِ: چنگاری جو گھوڑے کے سم سے پتھر وغیرہ پر ٹھوکر لگنے سے نکلے۔

الْمُحَبَّبُ: بد غذا۔ الْحَبِيبَةُ: تریوز۔ نَجْ حَبِيبٌ.

حَبَّبًا. حَبَّبٌ: اور ذَا اِسْمِ اِشَارَہ سے مرکب کلمہ ہے جو مدح کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور ہر صورت میں یہی صیغہ بولا جاتا ہے۔ (حَبَّبَةٌ) کسی سے "حَبَّبًا" کہنا۔

حَبَّبٌ: بیج، بطور دو حکماء کا چھوٹی سی گولی بنانا۔

حَبِ الصَّمَامِ: او لا الحبة السوداء: شو نیز یعنی کلونجی۔ السَّجَّةُ الْخَضْرَاءُ: بن کا پھل۔

حَبَبٌ (ن) حَبَبًا. الشئی: مزین کرنا۔ منقش کرنا۔

حَبَبٌ (ن) حَبَبًا. الشئی: مزین کرنا۔ منقش کرنا۔

رہنے کی جگہ۔ ج مَحَابِس۔ حَبَش (ن) حَبَشَا وَحَبَاشَةٌ حَبَش وَإِحْبَش. الشئ: جمع کرنا۔ أَحْبَشَت. المرأة: جشی بچہ جتنا۔ تَحْبَش. القوم: اکٹھا ہونا۔	الخائوز: بدکاروں کی مجلس۔ المَحَابِس: سرخاب۔ ج حَبَارَات السُّورُ وَالْمَجْرُورُ وَالْمَجْرُورُ: سرخاب کا بچہ۔ ج حَبَارِيو. كَذِب (جبریت) خالص جھوٹ۔	حَبْرَةٌ (ن) حَبْرٌ وَحَبْرَةٌ وَحَبْرَةٌ: خوش کرنا۔ أَحْبَرَتِ الْأَرْضُ: پیداوار کا زیادہ ہونا۔ حَبْر (س) حَبْرٌ وَحَبْرٌ: خوش ہونا۔ (..... حَبْرًا) الجرح: زخم کا اچھا ہونا اور کچھ اثر باقی رہنا..... الاسنان: زرد ہونا..... الارض: پیداوار کا زیادہ ہونا۔ حَبْر. الدواة: روشنائی ڈالنا..... الكلام او الخط او الشعر: عمدہ بنانا۔ حَبْر: پتوں کے کانے کا نشان والا ہونا۔ تَحْبِر: مزین ہونا۔ عمدہ ہونا۔ السحاب: ظاہر ہونا اور پھیلنا۔ الحَبْرُ وَالْحَبْرُ: نیک عالم۔ خوش نعمت۔ الحَبْرُ الْأَعْظَمُ: پوپ۔ یہودیوں کے نزدیک کا بنوں کا سردار۔ ج أَحْبَار وَحَبْر. الحَبْر: روشنائی خوبصورتی۔ نقش و نگار۔ دانتوں کی زردی ج حَبْرٌ کہا جاتا ہے "فلان حسن الحَبْر والسَبْر" یعنی فلاں خوبصورت اچھی بیبت والا ہے۔ "وفلان ليس له حَبْر" یعنی فلاں کا کوئی مثیل و نظیر نہیں "وذهب حَبْرُهُ وَسِنُّهُ" یعنی اس کی رونق و بیبت جاتی رہی۔ الحَبْر: مص۔ اثر۔ الحَبْرَةُ. مثلثة الحاء: دانتوں کی زردی۔ الحَبْرَةُ وَالْحَبْرَةُ: ایک قسم کی مینھی چادر۔ ج حَبْرَات وَحَبْرَات وَحَبْر. الحَبْرَةُ: خوشی۔ نعمت۔ ہر عمدہ راگ۔ الحَبْرُ وَالْحَبْرُ. من الثياب: نیا و نرم منقش چادر۔ حَبْرٌ کی جمع حَبْرٌ ہے۔ الحَبْرَاتُ ج حَبَارَات وَ(الحَبْر) ج حَبْرُ: داغ۔ نشان۔ اثر۔ کہا جاتا ہے "بجلبده حَبْرُ الضَّرْب" اس کی کھال میں مار کا اثر ہے۔ "وفى يده حَبْرُ الْعَمَلِ" اس کے ہاتھ میں کام کرنے کا اثر ہے۔ المَحْبِرَةُ وَالمَحْبِرَةُ وَالمَحْبِرَةُ: دوات۔ ج مَحَابِر. الحَبْرَةُ: امامت۔
حَبْس (ن) حَبْسٌ وَحَبْسٌ: قید کرنا عن الشئ: روکنا..... الشئ: پورے طریقے سے حفاظت کرنا..... الشئ بالشئ: ڈھانچنا یا احاطہ کرنا۔ المال على كذا: وقف کرنا۔ أَحْبَسَ وَحَبَس. المال: اللہ کے راستہ میں وقف کرنا۔ حَابِسَةُ مَحَابِسَةٍ: روک رکھنا۔ تَحْبَسَ وَاحْتَبَس. فى الكلام: رک جانا على كذا: محدود رکھنا۔ و احتبسة: روک رکھنا (لازم و متعدی) أَحْبَسَ الرجل: قیدی بنانا۔ الحَبْسُ ج حَبْسٌ وَ(المَحْبَس) ج مَحَابِس: قید خانہ۔ الحَبْس: پٹنگ پوش۔ وہ لکڑی یا پتھر جو پانی کے بہاؤ کے روکنے کے لئے رکھا جائے ج أَحْبَاس. الحَبْس: واحد حَابِس (و الحَبْس) واحد حَبْسٌ: یا حَبْس: پیادے۔ وقف شدہ چیز۔ الحَبْسَةُ: گفتگو کرنے میں دشواری۔ الحَابِسَةُ. الحَابِس: کامؤنٹ۔ اؤنٹ جو شریف النسل ہونے کی وجہ سے گھر ہی میں باندھ کر رکھے جائیں۔ الحَابِس: اؤنٹ جو شریف النسل ہونے کی وجہ سے گھر ہی میں باندھ کر رکھے جائیں۔ أُمُور خَيْرٍ مِّنْ وَقْفٍ شَدِيدٍ (حَبْسَةُ) کی جمع ہے۔ الحَبْس: قیدی..... من الخيل: جہاد کے لئے وقف شدہ گھوڑا۔ ج حَبْس: دنیا سے بے تعلق آدمی۔ ج حَبْسَاء. المَحْبَسَةُ: قید خانہ۔ عابدوں زاہدوں کے	حَبْس (ن) حَبْسٌ وَحَبْسٌ: قید کرنا عن الشئ: روکنا..... الشئ: پورے طریقے سے حفاظت کرنا..... الشئ بالشئ: ڈھانچنا یا احاطہ کرنا۔ المال على كذا: وقف کرنا۔ أَحْبَسَ وَحَبَس. المال: اللہ کے راستہ میں وقف کرنا۔ حَابِسَةُ مَحَابِسَةٍ: روک رکھنا۔ تَحْبَسَ وَاحْتَبَس. فى الكلام: رک جانا على كذا: محدود رکھنا۔ و احتبسة: روک رکھنا (لازم و متعدی) أَحْبَسَ الرجل: قیدی بنانا۔ الحَبْسُ ج حَبْسٌ وَ(المَحْبَس) ج مَحَابِس: قید خانہ۔ الحَبْس: پٹنگ پوش۔ وہ لکڑی یا پتھر جو پانی کے بہاؤ کے روکنے کے لئے رکھا جائے ج أَحْبَاس. الحَبْس: واحد حَابِس (و الحَبْس) واحد حَبْسٌ: یا حَبْس: پیادے۔ وقف شدہ چیز۔ الحَبْسَةُ: گفتگو کرنے میں دشواری۔ الحَابِسَةُ. الحَابِس: کامؤنٹ۔ اؤنٹ جو شریف النسل ہونے کی وجہ سے گھر ہی میں باندھ کر رکھے جائیں۔ الحَابِس: اؤنٹ جو شریف النسل ہونے کی وجہ سے گھر ہی میں باندھ کر رکھے جائیں۔ أُمُور خَيْرٍ مِّنْ وَقْفٍ شَدِيدٍ (حَبْسَةُ) کی جمع ہے۔ الحَبْس: قیدی..... من الخيل: جہاد کے لئے وقف شدہ گھوڑا۔ ج حَبْس: دنیا سے بے تعلق آدمی۔ ج حَبْسَاء. المَحْبَسَةُ: قید خانہ۔ عابدوں زاہدوں کے	
حَبْس (ن) حَبْسٌ وَحَبْسٌ: قید کرنا عن الشئ: روکنا..... الشئ: پورے طریقے سے حفاظت کرنا..... الشئ بالشئ: ڈھانچنا یا احاطہ کرنا۔ المال على كذا: وقف کرنا۔ أَحْبَسَ وَحَبَس. المال: اللہ کے راستہ میں وقف کرنا۔ حَابِسَةُ مَحَابِسَةٍ: روک رکھنا۔ تَحْبَسَ وَاحْتَبَس. فى الكلام: رک جانا على كذا: محدود رکھنا۔ و احتبسة: روک رکھنا (لازم و متعدی) أَحْبَسَ الرجل: قیدی بنانا۔ الحَبْسُ ج حَبْسٌ وَ(المَحْبَس) ج مَحَابِس: قید خانہ۔ الحَبْس: پٹنگ پوش۔ وہ لکڑی یا پتھر جو پانی کے بہاؤ کے روکنے کے لئے رکھا جائے ج أَحْبَاس. الحَبْس: واحد حَابِس (و الحَبْس) واحد حَبْسٌ: یا حَبْس: پیادے۔ وقف شدہ چیز۔ الحَبْسَةُ: گفتگو کرنے میں دشواری۔ الحَابِسَةُ. الحَابِس: کامؤنٹ۔ اؤنٹ جو شریف النسل ہونے کی وجہ سے گھر ہی میں باندھ کر رکھے جائیں۔ الحَابِس: اؤنٹ جو شریف النسل ہونے کی وجہ سے گھر ہی میں باندھ کر رکھے جائیں۔ أُمُور خَيْرٍ مِّنْ وَقْفٍ شَدِيدٍ (حَبْسَةُ) کی جمع ہے۔ الحَبْس: قیدی..... من الخيل: جہاد کے لئے وقف شدہ گھوڑا۔ ج حَبْس: دنیا سے بے تعلق آدمی۔ ج حَبْسَاء. المَحْبَسَةُ: قید خانہ۔ عابدوں زاہدوں کے	حَبْس (ن) حَبْسٌ وَحَبْسٌ: قید کرنا عن الشئ: روکنا..... الشئ: پورے طریقے سے حفاظت کرنا..... الشئ بالشئ: ڈھانچنا یا احاطہ کرنا۔ المال على كذا: وقف کرنا۔ أَحْبَسَ وَحَبَس. المال: اللہ کے راستہ میں وقف کرنا۔ حَابِسَةُ مَحَابِسَةٍ: روک رکھنا۔ تَحْبَسَ وَاحْتَبَس. فى الكلام: رک جانا على كذا: محدود رکھنا۔ و احتبسة: روک رکھنا (لازم و متعدی) أَحْبَسَ الرجل: قیدی بنانا۔ الحَبْسُ ج حَبْسٌ وَ(المَحْبَس) ج مَحَابِس: قید خانہ۔ الحَبْس: پٹنگ پوش۔ وہ لکڑی یا پتھر جو پانی کے بہاؤ کے روکنے کے لئے رکھا جائے ج أَحْبَاس. الحَبْس: واحد حَابِس (و الحَبْس) واحد حَبْسٌ: یا حَبْس: پیادے۔ وقف شدہ چیز۔ الحَبْسَةُ: گفتگو کرنے میں دشواری۔ الحَابِسَةُ. الحَابِس: کامؤنٹ۔ اؤنٹ جو شریف النسل ہونے کی وجہ سے گھر ہی میں باندھ کر رکھے جائیں۔ الحَابِس: اؤنٹ جو شریف النسل ہونے کی وجہ سے گھر ہی میں باندھ کر رکھے جائیں۔ أُمُور خَيْرٍ مِّنْ وَقْفٍ شَدِيدٍ (حَبْسَةُ) کی جمع ہے۔ الحَبْس: قیدی..... من الخيل: جہاد کے لئے وقف شدہ گھوڑا۔ ج حَبْس: دنیا سے بے تعلق آدمی۔ ج حَبْسَاء. المَحْبَسَةُ: قید خانہ۔ عابدوں زاہدوں کے	

<p>”وہو یحطُبُ فی حبلِ فلان“ یعنی وہ اس کی اعانت اور مدد کرتا ہے۔ ”وَحْرَمَ حَبَالَهُ“ یعنی اس نے تعلقات منقطع کر لئے۔</p> <p>الحَبْلُ: حصّ۔ انور کی تیل یا اس کی شاخیں واحد حَبْلَةٌ ج اَحْبَالٌ: بھر جانا۔ نم وغصہ۔ حمل۔</p>	<p>کمر بند۔ الحَبَاک: ریت کے ٹیلہ کا راستہ۔ ج حَبْک:</p> <p>الحَبْک والحَبِکَة: انور کی جڑ۔ الحَبِک: کینہ۔ الحَبِک: سخت۔ الحَبِک: مضبوط کیا ہوا۔</p>	<p>البقر: ہمیشہ کے لئے کم ہو جانا۔ حَبِطَ دَمُ الْقَتِيلِ: بیکار جانا۔ حَبِطَ الْبَعِیْزُ حَبِطًا: خندق نامی ایک قسم کی نباتات کے کھانے سے پیٹ بھولنا۔ صفت (حَبِط) ج حَبَاطِی اور اس بیماری کا نام حَبَاط ہے۔ اَحْبَطَ: عملہ: بے کار و باطل کرنا۔ اَحْبَطَ الصَّرْبُ زَيْدًا: نشان چھوڑنا۔ اَحْبَطَ عَنْهُ: روگردانی کرنا۔ کہا جاتا ہے ”تعلق بہ ثم اَحْبَطَ عَنْهُ“ اس کا تعلق اس سے ہوا پھر اس نے روگردانی کی۔</p>
<p>الحَبِیْلُ: دانشمند و زیرک۔ چالاک۔ ج حَبُول:</p> <p>الحَبَابِلُ: پھندے سے شکار کرنے والا جادوگر۔ کپڑے کا تانا۔ ”اَحْتَلَطَ الْحَبَابِلُ بِالسَّابِلِ“ بطور ضرب المثل کے اس وقت بولتے ہیں جب یہ کہنا ہوتا ہے کہ فلاں معاملہ آپس میں گٹھ گیا اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس مثال میں حَبَابِل سے تانا اور نَابِل سے بانا مراد ہے اور بعضوں کے نزدیک حَبَابِل سے مراد پھندے سے شکار کرنے والا اور نَابِل سے مراد تیر سے شکار کرنے والا ہے۔ نیز کہتے ہیں ”دار حَابِلُهُ عَلٰی نَابِلِهِ“ یعنی اس کا اول آخر پر گھوم گیا۔ ”وَشَارَ حَابِلُهُمْ عَلٰی نَابِلِهِمْ“ یعنی انہوں نے آپس میں شرف و فساد برپا کر لیا۔ ”وَحَوْلَ حَابِلُهُ عَلٰی نَابِلِهِ“ یعنی اس نے اوپر کا نیچے کر دیا۔</p>	<p>الحَبِیْکَة: الحَبِیْک: کامنٹ۔ ریت کے ٹیلے کا راستہ۔ ستاروں کے درمیان کا راستہ۔ بالوں کے گٹھے کی ایک لٹ۔ لوہے کی زرہ ج حَبَائِک و حَبِک و حَبْک:</p> <p>قرآن مجید میں ہے ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ﴾ قسم ہے آسمان راستوں والے کی۔</p>	<p>الصَّرْبُ زَيْدًا: نشان چھوڑنا۔ اَحْبَطَ عَنْهُ: روگردانی کرنا۔ کہا جاتا ہے ”تعلق بہ ثم اَحْبَطَ عَنْهُ“ اس کا تعلق اس سے ہوا پھر اس نے روگردانی کی۔</p> <p>الصَّحْبُ: حصّ۔ زخم کا نشان۔ مار کی وجہ سے بدھی۔ مار کی وجہ سے آماں۔</p> <p>الصَّحْبَطِی: مونا و پست قدمے میں بھرا ہوا۔</p>
<p>حَبِیْقَةُ (ض) حَبِیْقًا: نارنا۔ حَبِیْق (ض) حَبِیْقًا وَحَبِیْقًا: الغَزُ: گوز کرنا۔ (اس کا اکثر استعمال بکری اور اونٹ کے لئے ہے۔)</p> <p>حَبِیْقُ: المتاع: جمع کرنا۔ اَحْبِیْقُ: تابع اور ہونا۔ حَبِیْقُوا وَتَحَابَقُوا: غلبہ: جہالت سے کام لینا۔</p>	<p>الصَّحْبُ: حصّ۔ زخم کا نشان۔ مار کی وجہ سے بدھی۔ مار کی وجہ سے آماں۔</p> <p>الصَّحْبَطِی: مونا و پست قدمے میں بھرا ہوا۔</p> <p>حَبِیْقَةُ (ض) حَبِیْقًا: نارنا۔ حَبِیْق (ض) حَبِیْقًا وَحَبِیْقًا: الغَزُ: گوز کرنا۔ (اس کا اکثر استعمال بکری اور اونٹ کے لئے ہے۔)</p> <p>حَبِیْقُ: المتاع: جمع کرنا۔ اَحْبِیْقُ: تابع اور ہونا۔ حَبِیْقُوا وَتَحَابَقُوا: غلبہ: جہالت سے کام لینا۔</p>	<p>حَبِیْقَةُ (ض) حَبِیْقًا: نارنا۔ حَبِیْق (ض) حَبِیْقًا وَحَبِیْقًا: الغَزُ: گوز کرنا۔ (اس کا اکثر استعمال بکری اور اونٹ کے لئے ہے۔)</p> <p>حَبِیْقُ: المتاع: جمع کرنا۔ اَحْبِیْقُ: تابع اور ہونا۔ حَبِیْقُوا وَتَحَابَقُوا: غلبہ: جہالت سے کام لینا۔</p>
<p>الحَبِیْقُ: پودینہ۔ واحد حَبِیْقَةُ: حَبِیْقُ الْمَاءِ: نہری نعننع۔ حَبِیْقُ الْبَقْرِ: ہابونہ۔ حَبِیْقُ الْفَسٰی او الْفِیْلِ: دو نامروا۔ السَّحْبُقُ وَالْحَبِیْقَةُ: کم عقل۔ کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ حَبِیْقٌ“ چائل مرد۔ الحَبِیْقُ: بے کار و بے فائدہ مرد۔ الحَبِیْقُ: اولہ۔</p>	<p>الصَّحْبُ: حصّ۔ زخم کا نشان۔ مار کی وجہ سے بدھی۔ مار کی وجہ سے آماں۔</p> <p>الصَّحْبَطِی: مونا و پست قدمے میں بھرا ہوا۔</p> <p>حَبِیْقَةُ (ض) حَبِیْقًا: نارنا۔ حَبِیْق (ض) حَبِیْقًا وَحَبِیْقًا: الغَزُ: گوز کرنا۔ (اس کا اکثر استعمال بکری اور اونٹ کے لئے ہے۔)</p> <p>حَبِیْقُ: المتاع: جمع کرنا۔ اَحْبِیْقُ: تابع اور ہونا۔ حَبِیْقُوا وَتَحَابَقُوا: غلبہ: جہالت سے کام لینا۔</p>	<p>حَبِیْقَةُ (ض) حَبِیْقًا: نارنا۔ حَبِیْق (ض) حَبِیْقًا وَحَبِیْقًا: الغَزُ: گوز کرنا۔ (اس کا اکثر استعمال بکری اور اونٹ کے لئے ہے۔)</p> <p>حَبِیْقُ: المتاع: جمع کرنا۔ اَحْبِیْقُ: تابع اور ہونا۔ حَبِیْقُوا وَتَحَابَقُوا: غلبہ: جہالت سے کام لینا۔</p>
<p>الحَبِیْلُ: رسی بنانے والا یا بیچنے والا۔ الحَبْلَانُ: غصہ اور کینہ سے بھرا ہوا۔ مَوْنَتُ حَبْلَانَةٍ:</p> <p>المَحْبِلُ: حمل کی مدت۔ المَحْبِلُ: رسی۔ شعر محبِل: بچے ہوئے پال۔ مَحْبِلٌ: الفوس: گھوڑے کی ٹانگ اور کھر کا جوڑ۔</p>	<p>حَبِیْلُ: رسی۔ بانہ ہنے کی چیز۔ ج حَبَالِ وَأَحْبِلُ وَحَبُولُ وَاحْبَالُ: ملاپ۔ عہد و مدہ ریت کا لمبا ٹکڑا۔ بدن کی رگ جیسے حَبِیْلُ السِّدْرَاعِ وَحَبِیْلُ السُّورِنِدِ: کہا جاتا ہے ”هُوَ عَلٰی حَبِیْلِ ذِرَاعِکَ“ وہ تم سے قریب ہے۔ ”وَصَلَ زَيْدٌ حَبِیْلَ عَمْرٍو“ زید نے اپنی لڑکی کی شادی عمرو سے کر دی۔</p>	<p>حَبِیْقَةُ (ض) حَبِیْقًا: نارنا۔ حَبِیْق (ض) حَبِیْقًا وَحَبِیْقًا: الغَزُ: گوز کرنا۔ (اس کا اکثر استعمال بکری اور اونٹ کے لئے ہے۔)</p> <p>حَبِیْقُ: المتاع: جمع کرنا۔ اَحْبِیْقُ: تابع اور ہونا۔ حَبِیْقُوا وَتَحَابَقُوا: غلبہ: جہالت سے کام لینا۔</p>

حَبْنُ (س) حَبْنًا وَحَبْنٌ حَبْنًا: سوچے ہوئے پیٹ والا ہونا۔ صفت (ح)۔ ایں ومحبون و احبن) عَلَيْهِ غصه سے بھرنا۔

أَحْبَنَةُ الدَّاءِ: سوچے ہوئے پیٹ والا کر دینا۔

الحبن والحبين: کثیر کا درخت۔
أُمُّ حَبْنٍ وَالْحَبْنَةُ: گرگٹ کے مشابہ ایک جانور۔

الحبن: بندر۔ پیپ سے بھرا ہوا پھوڑا۔ ج حَبْنُونُ.

حَبْنًا (ن) حَبْنًا: قریب ہونا۔ کہا جاتا ہے "حَبْنُونَ إِلَى الْخَمْسِينَ" میں پچاس سال کے قریب ہو گیا۔ الولد: پوتوں کے بل گھسنا۔ السفينة: جاری ہونا۔ حَبْنًا صَا

حَوْلَهُ: حفاظت کرنا اور منع کرنا۔ الشئ له: پیش آنا۔ السهم: نشانہ خطا کرنا۔ كَذَا وَبِكَذَا: بغیر کسی بدلہ کے دینا۔ ه عَنْ كَذَا: منع کرنا۔

حَبْنًا: حفاظت کرنا اور منع کرنا۔

حَبْنِي حَبْنًا وَحَبْنًا وَحَبْنًا: الرجل: بدد کرنا۔ دوسروں کے علاوہ مخصوص کرنا۔ ه فسی البيع: بہولت برتا۔ القاضی زیدًا فی الحکم: انصاف سے ہٹ کر مائل ہونا۔

أَحْبَنِي. الرامی: نشانہ سے خطا کرنا۔ کہا جاتا ہے "رَمَى فِاحْبَنِي" اس نے تیر پھینکا اور نشانہ سے خطا کی۔

أَحْبَنِي أَحْبَنًا. بالثوب: کسی کپڑے میں لپٹ جانا۔ پیچھے اور پٹلیوں کو کسی کپڑے سے باندھ لینا۔

السجاء والسجوة والسجوة والسجوة: عطية۔ العجاء: عورت کا مہر۔

السجوة والسجوة: وہ کپڑا جس سے پیچھے اور پٹلیوں کو ملا کر باندھ لیا جائے۔ ج حَبْنِي وَحَبْنِي.

السجبي والسجبا: گہرا بادل جو زمین سے قریب ہو۔

العجبي: قاف۔ گردن تک بلند کندھوں والا۔

حَتَّ (ن) حَتًّا. الشجر: پتے جھاڑنا۔ چھال اتارنا۔ الشئ: عن الثوب: رگڑ کر دور کرنا۔ عن الشئ: ہٹا دینا۔ الورق او القشر عن الشجر: پتے جھڑنا یا چھال گرنا۔

تَحَاتَّ تَحَاتًّا وَانْحَتَّ وَانْحَتًّا. الورق من الشجر: جھڑ جانا۔ شعرة عن راسه: گرنا۔ الأسنان: کھوکھلا ہو کر گرنا۔

الحث: مصل۔ مُردہ مڈی۔ الفرس الحث: تیز رفتار گھوڑا۔ ج أَحْضَاتُ کہا جاتا ہے "تَرَحُّوهُمْ حَضَاتًا أَوْ حَضَاتًا" یعنی انہوں نے ان کو ہلاک کر دیا۔ "وَمَا فِي يَدَيَّ مِنْ حَثٍّ أَوْ حَضَاتِهِ" یعنی اس میں سے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں۔

الحثت: درختوں کی خرابی جس سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔

الحثات: بٹھری ہوئی چیز۔ چورہ۔ ریزہ۔ الحثات: شور و غوغا۔

الحثوت واليحثات. من النخل: کھجور کا درخت جس سے کچی ہی کھجوریں گر جائیں۔ حثی: حرف جار ہے۔ انتہا پر دلالت کرتا ہے جیسے "اکلت السمكة حثی واسمها" یعنی

میں نے مچھلی کو اس کے سر تک کھا لیا اور "ان" مصدر یہ کی تقدیر سے فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور غایت کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے 'بِزَتْ حَتَّى أَذْخَلَ الْمَدِينَةَ' یعنی میں چلا

یہاں تک کہ شہر میں داخل ہو گیا اور یا بیان علت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے جیسے "تَرَهَّبْتُ حَتَّى اتوب" یعنی میں نے توبہ کرنے کے لئے دنیا سے بے رغبتی اختیار کی اور کبھی حرف عطف بمعنی واؤ ہوتا ہے جیسے "اکلت السمكة حَتَّى راسها" میں نے مچھلی کو اور اس کے سر کو کھا لیا اور کبھی حرف ابتداء ہوتا ہے۔ جیسے "فروا عجبًا حَتَّى كَلْبٍ تَسْبِي" بڑا تاجب ہے کہ کلیب مجھے گالی دینے لگیں۔

حَتَمًا: کب تک اس کی اصل حتی ما ہے۔ "مَا" استفہامیہ کا الف حذف کر دیا گیا ہے۔

حَتًّا (ف) حَتًّا وَحَتًّا. العقدة: گرہ باندھنا۔ الثوب: کپڑا سینا۔ الجدران: دیوار مضبوط کرنا۔ الشئ: لگا تار دیکھنا۔ الجمل عن الدابة: بوجھ اتارنا۔

المرأة: جماع کرنا۔ الرجل: مارنا۔ حَتَّحْتُ: جلدی کرنا۔ تَحْتَحْتُ. الورق: جھڑنا۔

حِتَّة (س) حِتًّا: خالص الاصل ہونا۔ صفت (حِتْد) حِتْدًا (ض) حِتًّا: اقامت کرنا۔

حِتْدًا. الشئ: خالص اور نفس ہونے کی وجہ سے چٹنا۔

الحخد والحند. من الشئ: اصل جو ہر کہا جاتا ہے "عین حُخْدًا" پانی ختم نہ ہونے والا چشمہ۔

الصحنيد: اصل۔ کہا جاتا ہے "فلان كريم الصحنيد" فلاں کریم الاصل ہے۔

حَضْرَه (ن ض) حَضْرًا وَحُضْرًا: باندھنا۔ مضبوط کرنا۔ تیز نگاہ سے دیکھنا۔ تھوڑا دینا۔ تھوڑی خوراک دینا۔ حضر له شيئًا: تھوڑا دینا۔ اهله: نان و نفقہ میں تنگی کرنا۔ کہا جاتا ہے "ما حَضَرْتُ الْيَوْمَ شَيْئًا" میں نے آج کچھ نہیں کھایا۔ یا مجھے آج کچھ حاصل نہیں ہوا۔

أَحْضَرَ. الشئ: مضبوط کرنا۔ الرجل: تھوڑی بھلائی یا تھوڑی بخشش والا ہونا۔ عَلَيْنَا الرزق: کم کرنا یا روک لینا۔

حَضَرَ. نان و نفقہ میں کمی کرنا۔ اليئت: گھر کے گرد گھیرا بنانا۔

الحضر والحضر والحضرة: تھوڑی چیز یا تھوڑی بخشش۔

حَضَار. الشئ: کنارہ۔ گھیرا۔ جیسے "حَضَارِ الْأَذْنِ" کان کا کنارہ۔ "حَضَارِ الظفر" ناخن کے ارد گرد کا گوشت۔ "حَضَارِ الْمُنْخَلِ

حَضَارِ الْمُنْخَلِ

والغریبال" پھلتی کا کبیرا۔ ح حُوت۔

الحوتة: ایک بار بچکا دودھ جو سنا۔

الحوتيرة: عند البعض الحوتيرة: کھانا جو عمارت کی تیاری پر کھلایا جائے۔

المُختر: اہل و عیال پر نان نفقہ میں تنگی کرنے والا۔

حَنْزُ حَنْزُمة. الجراد: کھانے میں آواز نکالنا۔

تَحْتَرُش. القوم: اکٹھا ہونا۔

المختزوش: پکا پھلکا چست لڑکا۔

الحناروش: بچے کی حرکتیں۔ کہا جاتا ہے "ما احسن حناروش هذا الصبي" اس بچے کی حرکتیں کس قدر اچھی ہیں۔

تَحْخَرُف. الشئ: بکھر جانا۔ کہا جاتا ہے "تَحْخَرُف الشئ من يدى" چیز میرے ہاتھ سے بکھر گئی۔

الحترفة: آنکھ کی سرنخی۔ سختی۔

حَنْش (ن) حَنْشًا: آمادگی کے ساتھ جمع ہونا۔

الحنْف: موت۔ کہا جاتا ہے "مات حنْف" اَيْفِهِ أَوْ حَنْف فِيهِ" وہ اپنی موت سے مرا۔ ح حنوف.

حَنْك (ض) حَنْكًا وَحَنْكًا: چھوٹے قدموں سے تیز چلنا۔

الحنك والحوايك: شتر مرغ کے بچے۔

حَنْلَة (ن) حَنْلًا: دینا۔

الحنل والحائل: مثل و مشابہ۔ الحنل: عطیہ۔ گھنیا چیز۔

حَنْم (ض) حَنْمًا. الشئ: مضبوط کرنا۔ الشئ علیہ: واجب کرنا۔ بالشئ: کسی چیز کا حکم لگانا۔

تَحْتَم: خوش ہونا۔ اظہارِ شادمانی کرنا۔ و مترخوان کے بقیہ کو کھانا۔ السزجاج بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ: شیشہ کا بعض بعض پر گر کر ٹوٹنا۔ (.....) وإنحتم: واجب ہونا۔ تَحْتَم الشئ على نفسه: لازم کر لینا۔

واجب کر لینا۔

الحاتيم: فلاح۔ حاکم۔ کہا جاتا ہے "حتم الحاتيم بكذا" حاکم نے فلاں چیز کا فیصلہ کیا۔ کالا کوا۔

الحجم: مص۔ خالص۔ کہا جاتا ہے "هو الاخ الحتم" وہ حقیقی بھائی ہے۔ "وهذا ولد حتم" یہ حقیقی لڑکا ہے جس کے نسب میں کوئی شبہ نہیں۔ فیصلہ۔ ح حُوم۔

الحنومة: ترشی۔

الحنمة: سیاہی۔

الاحتم: سیاہ۔

الحنامة: دسترخوان کا چورہ۔

حَيْن (س) حَيْنًا. الحن: تیز ہونا۔

أَحْسَن. الرجل: سارے تیر ایک ہی جگہ پڑنا۔

تَحَاتِن. القوم في الامر: برابر ہونا۔ کہا جاتا ہے "تَحَاتِن الذمَع" دو دو قطرے آنسو کے گرے۔ "وتَحَاتِنَب الرياح" ہوا کیلے پے در پے چلیں۔

إِحْتِن: بالکل برابر ہونا۔

الحسن والحسن: برابر۔ ہمسر۔ کہا جاتا ہے "هُمَا جَتَان" وہ دونوں برابر ہیں۔ الحنن: باطل۔ یوم (حائین) گرمی میں اول آخر برابر دن۔

الحنن: پہاڑ کے کنارے۔

حَنَانُ حُنُوتًا: تیز دوڑنا۔

حَصَاة (ض) حَصِيًا وَأَحْصَاء: مینا۔ مضبوط کرنا۔ الحبل: بنا۔

فرس (مُحْتَاة) الخلق: مضبوط بدن کا گھوڑا۔

حَتْ (ن) حَصًا وَحَنْتَ تَحْنِينًا وَأَحْتِ إِحْصَانًا وَإِحْتًا إِحْفَانًا وَأَسْتَحْتِ اسْتِحْفَانًا. الرجل على الامر: براہمجنتہ کرنا۔ ا کسانا۔

حائتہ: براہمجنتہ کرنا۔ ا کسانا۔

تَحَات. القوم: ایک دوسرے کو براہمجنتہ کرنا۔

إِحْت: براہمجنتہ ہونا (لازم و متعدی)

حَنْتَ تَحْنِينًا: سونا۔

الحنك: بھوسے کے ریزے۔ خشک روٹی۔ چھچھاتا ہوا ریت۔

الحنيث والحنوث: تیز کہا جاتا ہے "ولی حنيثًا" وہ تیز بھاگا۔

الحنث والحنث: جلدی۔ تھوڑی نیند۔ کہا جاتا ہے "ما اکنحل فلان حنثًا" یعنی وہ ذرا بھی نہیں سویا۔

حَنْح: البرق: بادل میں کوندنا۔

فلانًا: کسی چیز پر براہمجنتہ کرنا۔ الميل في العين: سرمہ کی سلائی کو آنکھ میں حرکت دینا۔

تَحْنَح: القوم: آمادہ ہونا۔

الحنحاح والحنحوت: تیز جس میں کسی قسم کی سستی نہ ہو۔

حَنْو (س) حَنْوًا. المجلد: پھنسی والا ہونا۔ العین: آشوب چشم کی وجہ سے موٹے پوٹے والی ہونا۔ العسل: خراب ہونے کی وجہ سے دانہ وار ہونا۔ صفت (حائرو حنیر): الشئ: کشادہ ہونا۔

صفت (حَنْو وَحَنْو):

حَنْو. الدواء: گولی بنانا۔

أَحْنُو وَتَحْنُو. النخل: دانہ ظاہر ہونا۔

الحنر: مص۔ تیخت۔

الحنير: پھنسی والا۔ طعام حنير: بکھرا ہوا کھانا۔ جس میں کوئی برکت نہ ہو۔ فَوَاذ حَنْو: دل جو کچھ محفوظ نہ رکھ سکے۔ لسان حنير: زبان جس کو کچھ مزہ معلوم نہ ہو۔

حَنْوَب. الماء: گدلا ہونا۔ البئر: گدلے پانی والا ہونا۔

الحنوب: گدلا پانی۔ نرم زمین میں اُگنے والی ایک قسم کی گھاس۔ ہانڈی کی تلی کی چکنائی۔

حَنْوَل (س) حَنْوَلًا: بڑے پیٹ والا ہونا۔

أَحْنَلت. الأم و لدها: خراب غذا دینا۔ صفت مقعوی (حنیل): الدهر فلانًا: برا حال کر دینا۔ تباہ حال کر دینا۔

الْحَجُّلُ: برے طریقہ سے دودھ پلانا۔ تباہ حالی۔
 الْحَجُّلُ: لاغر۔ کمزور۔
 الْحَجَّلَةُ: حوض کا بقیہ پانی۔
 الْحَجَّالُ وَالْحَجَّالَةُ: چاول ہو وغیرہ کا چھلکا۔
 حُفَّالَةُ الدَّهْنِ: تیل کا تچھٹ..... الناس: ادنیٰ درجہ کے لوگ۔
 الْحُفْمَةُ وَالْحُفْمَةُ: چھوٹا ٹیلہ۔ وَالْحُفْمَةُ: ناک کا بانس۔ رَجْحَامُ:
 السُّفْمَةُ: بند کے نزدیک پانی کے کرنے کی جگہ۔
 حُفَا (ن) حُفَا وَحُفَى (ض) حُفَيَا وَتُحْفَاءُ التَّرَابِ: گرانہ۔ ذُالنَّاءِ التَّرَابِ: گرانہ..... لہ: تھوڑا سا دینا۔ کہا جاتا ہے "حُفَا فِى وَجْهِهِ الرَّمَادُ" یعنی اس نے اسے شرمندہ کر دیا۔ "وَحُفَا فِى وَجْهِهِ التَّرَابِ" یعنی وہ اس سے سبقت لے گیا۔
 اسْتَحْفَضُوا: ایک دوسرے کے چہرے پر مٹی ڈالنا۔
 الْحَفَا وَالْحَفَى: بھوسہ کے ریزے۔ ڈالی ہوئی مٹی۔
 الْحَفْوَاءُ: بہت مٹی والی زمین۔
 الْحَفَى: مصل۔ لپ رَجْحِيَاتُ:
 الْحَفْوَةُ: مٹی کا ایک حصہ۔ رَجْحَى:
 حَجَّه (ن) حَجَّجًا: دلیل میں غالب ہونا۔
 السَّجْحُ: سلائی لگا کر دیکھنا..... ہ: قصد کرنا۔
 کہا جاتا ہے "حَجَّ سَبُو فُلَانٍ فُلَانًا" یعنی فلاں کے پاس بنو فلاں نے بہت آبدورفت کی "وَحَجَّحْتُ فُلَانًا" یعنی میں فلاں کے پاس بار بار آیا گیا۔ حَجَّجَ الْاِمَّاكِنَ الْمَقْدِسَةَ: زیارت کرنا۔ صَفَتْ (حَاجَّ) رَجَّ حَجَّجًا وَحَجَّجِيحًا وَحَجَّجًا: مؤنث حَاجَّجَةٌ رَجَّ حَجَّجًا حَجَّ عَلَيَّ: آنا..... عَنِ الْاَمْرِ: باز رہنا۔
 حَاجَّجَهُ حَجَّجًا وَمُحَاجَّجًا: بھگڑا کرنا۔
 حَجَّجَهُ تَحَجَّجِيحًا وَحَجَّجَهُ وَاحْتَجَّجًا: حج کرنے کے لئے بھیجنا۔

تَحَاجَّجًا تَحَاجَّجًا: باہم بھگڑا کرنا۔
 اِحْتَجَّجًا: دعویٰ کرنا اور دلیل پیش کرنا.....
 بِالسُّبْحَى: دلیل یا عذر بنانا..... الْيَتَى:
 زیارت کرنا۔
 اسْتَحْتَجَّ: حجت طلب کرنا۔
 السَّحَاجُ: فاء۔ مقامات مقدسہ کی زیارت کرنے والا۔ اسم جمع بمعنی حَجَّجًا۔ کہتے ہیں "قَدِمَ السَّحَاجُ حَتَّى الْمَشَاةِ" حاجی صاحبان آگئے یہاں تک کہ پیدل چل کر آنے والے بھی۔
 الْحَجَّجَةُ: حج کا اسم۔ سال۔
 ذُو الْحَجَّجَةِ: قمری سال کا بارہواں مہینہ رَجَّ حَوَاتِ الْحَجَّجَةِ: حَوَاتِ الْحَجَّجَةِ: کان کی لو۔
 الْحَجَّجَةُ: پالی۔ کان کی لو۔
 السُّحَّجَةُ: دلیل۔ برہان۔ رَجَّ حُجَّجًا وَحِجَّجًا:
 السُّحَّجَةُ: ابرو کی بڑی۔ رَجَّ حُجَّجًا وَحِجَّجَةً:
 وَحِجَّجًا: حَجَّجًا الشَّمْسِ: آفتاب کا کنارہ۔
 السُّحَّجِيحُ: دلیل میں غالب آنے والا۔ وہ شخص جس کے زخم کو سلائی میں ڈال کر معلوم کیا جائے۔
 الْمَصْحَجُ: حج کرنے کی جگہ۔
 الْمَصْحَجَةُ: راستہ کا درمیان۔ رَجَّ مَصْحَجًا:
 الْمَصْحَجُ: بڑا بھگڑا لو۔ زخم معلوم کرنے کی سلائی۔
 الْمَصْحَجِيُّوُجُ: دلیل میں مغلوب۔ مطلوب و مقصود۔ حج کرنے کی جگہ۔
 حَجَّجًا (ف) حَجَّجًا: بِالسُّبْحَى: خوش ہونا۔ غنہ الشَّيْءِ: روکنا۔
 حَجَّجِي (س) حَجَّجًا وَحَجَّجًا وَتَحَجَّجًا:
 بِالسُّبْحَى: بھل کرنا۔ فریفتہ ہونا۔
 الْحَجَّجِي: سزاوار۔ لائق۔ تم کہتے ہو "حَجَّجِي بَكْدًا" وہ فلاں چیز کے لائق ہے۔ پناہ کیلئے والا۔ تم کہتے "ہو حَجَّجِي الْيَهْمُ" وہ ان لوگوں کے پاس پناہ لینے والا ہے۔
 الْمَصْحَجُ: پناہ لینے کی جگہ۔

حَجَّجَهُ (ن) حَجَّجًا وَحَجَّجًا وَحَجَّجَةً:
 چھپانا۔ اندر آنے سے روکنا۔ حَجَّجَ بَيْنَهُمَا: حائل ہونا۔ حَجَّجَ صَدْرَهُ: تنگ ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ "فُلَانٌ يَحْجُّجُ لِلْاَمِيرِ" فلاں امیر کا دربان ہے۔
 تَحَجَّجَ وَاحْتَجَّجَ: چھپنا۔
 اسْتَحْتَجَّجَهُ: حاجب بنانا۔ دربان بنانا۔
 الْحَجَّجَابُ: مصل..... رَجَّ حُجَّجًا: پردہ۔ ہر وہ چیز جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہو۔
 تَعْوِيزٌ: حجاب الشمس: آفتاب کی روشنی۔ حَجَّجَابُ الْقَلْبِ: پردہ جو دل اور پیٹ کے درمیان حائل ہے۔
 السَّحَاجِبُ رَجَّ حَوَاجِبًا وَحَوَاجِبِيحًا: ابرو..... حَوَاجِبُ الشَّمْسِ: آفتاب کی شعاعیں..... السُّبْحَى: چیز کا کنارہ۔ حَاجِبُ الشَّمْسِ: آفتاب کا کنارہ جو طلوع ہونے کے وقت ابتداءً ظاہر ہو۔ السَّحَاجِبُ رَجَّ حُجَّجًا وَحَجَّجَةً: دربان۔
 الْحَجَّجَابَةُ: دربانی۔
 حَيْدًا: اس کا اعراب یعنی ترکیب۔
 حَسَبُ: فعل ماضی ذال: اسم اشارہ اس کا فاعل فعل فاعل مل کر خبر مقدم ضمیر یا بعد والا اسم اس کا مبداء مؤخر۔ مبتداء خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریں۔
 الْحَاجَّجِيَّةُ: معتدل علاقوں کی ایک پھولدار انگوری۔
 الْمَحْجُوبُ: اندھا۔
 حَخَّجَّجًا: گفتگو سے روکنا..... بِالْمَكَانِ:
 اقامت کرنا..... الرَّجْلُ: پیچھے پاؤں واپس ہونا۔
 حَجَّجَةُ (ن) حَجَّجًا وَحَجَّجًا: بتلث الحاءِ فِي الْمَصْدَرِيْنَ: منع کرنا۔ حَجَّجَ عَلَيْهِ الْقَضِي: نالی معاملات کے کرنے سے روکنا۔ (..... حَجَّجَ وَمَحْجَرًا) عَلَيْهِ الْاَمْرُ: محروم کرنا۔
 حَجَّجَرَ: الْقَمْرُ: ہالہ والا ہونا۔..... الطَّيْنُ: پتھر کی مانند سخت ہونا۔

أَحْجَرَةٌ: دُحَانِيْنَا - چھپانا۔

تَحَجَّرَ وَاسْتَحَجَرَ: پتھر کی مانند ہونا۔
الرَّجُلُ: حجرہ بنانا۔ تَحَجَّرَ عَلَيَّ فُلَانٌ: تنگی
ذالنا۔ کہا جاتا ہے "تَحَجَّرَ مَا وَسَعَهُ اللَّهُ"
اللہ نے جس چیز میں اس کے لئے وسعت کی
تھی اس کو اس نے اپنے لئے تنگ بنا لیا۔
مَحْرُومٌ كَرُمًا: اسْتَحَجَرَ عَلَيْهِ: جرأت و دلیری
کرنا۔

إِحْتَجَرَ: حجرہ بنانا۔ اِحْتَجَرَ الشَّيْءُ: اپنی گود
میں لینا۔ بہ: پناہ لینا۔

السَّحْجَرُ: مِص - مَنَع - رُوك - مِنَ الْعَيْنِ:
آکھنا خانہ (..... وَالْحَجْرُ وَالْحَجْرُ) گود۔
کہا جاتا ہے "نَسَأَ فُلَانٌ فِي حَجْرٍ فُلَانٌ"
فُلَانٌ کی پرورش فُلَان کی گود میں ہوئی۔
حَرَامٌ - کہا جاتا ہے "هَذَا حَجْرٌ عَلَيْكَ"
یہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ وَحَجْرٌ أَلَهُ: یعنی
دفع ہو۔ عَرَبٌ اس کو اس وقت بولا کرتے
ہیں جبکہ کسی چیز کو کمرہ سمجھیں۔

السَّحْجَرُ: مَثَلٌ - گھوڑی۔ حَجْرٌ: حَجْرُور
وَحُجْرَةٌ وَأَحْجَارٌ.

السَّحْجَرُ: پتھر۔ حَجْرٌ: أَحْجَارٌ وَحِجَارٌ
وَحِجَارَةٌ وَأَحْجَرٌ: کہا جاتا ہے "الْقَمَّةُ
السَّحْجَرُ" یعنی اس نے اسے لاجواب کر دیا
اور کہا جاتا ہے "أَهْلُ السَّحْجَرِ وَالْمَدْرُ" یعنی
دیہات کے رہنے والے لوگ۔ التَّحْجَرَانُ:
سونا چاندی۔ أَحْجَارٌ السَّحِيلُ: وہ عمدہ
گھوڑے جو نسل بڑھانے کے لئے پالے
جائیں۔ (مفرد استعمال نہیں کرتے)
السَّحْجَرُ: ناخن کے ارد گرد کا گوشت۔

السَّحْجَرَةُ: کتارہ۔ حَجْرٌ: حَجْرٌ وَحَجْرَاتٌ
وَخَوَاجِرٌ: کہا جاتا ہے "إِنْتَشَرَتْ حَجْرَاتُهَا"
اس کا مال زیادہ ہو گیا۔

السَّحْجَرَةُ: چھوٹا کمرہ۔ قَبْرٌ: يَارَهُ - كِتَارَهُ - حَجْرٌ
حَجْرٌ وَحَجْرَاتٌ وَحَجْرَاتٌ وَحَجْرَاتٌ.
حَجْرَاتُ الْعَسْكَرِ: لشکر کے دونوں بازو میں۔
وَبَسْرَةٌ.

السَّحْجَرُ وَالْحَجْجِيَّةُ: بہت پتھروں والی

جگہ۔

الْحَاجِرُ: فَا..... حَجْرٌ حَجْرَانٌ: بلند زمین جس
کے درمیان میں پست جگہ ہو۔ صحرا میں
حاجیوں کے اترنے کی جگہ۔ (وَالْحَاجِرُونَ)
نہر کے کنارے کا وہ حصہ جو پانی کو روک
لے۔

السَّحْجَرُ وَالْمِخْجَرُ: مِنَ الْعَيْنِ: آکھنا
خانہ۔ يَأْتُ: حَجْرٌ حَاجِرٌ.

السَّحْجَرُ: گاؤں کا گردا گرد۔ حفاظت کی
جگہ اور اسی سے ہے "السَّحْجَرُ الصَّحِيحُ"
وہ مقام جہاں پر وباء لوگ رکھے جائیں تا
کہ وہ یا دوسری جگہ نہ پھیلنے پائے۔

حَجْرَةٌ (نَضْرٌ) حَجْرٌ أَوْ حَجْرَةٌ: مَنَع
کرنا۔ رُوكْنَا - دَفَعْنَا: بَيْنَهُمَا فَاصِلَةٌ
کرنا..... غَلَبَهُ السَّمَالُ أَوْ الْعَقَارُ: مال یا
جانیدار کو دعویٰ کی بنا پر روک لینا۔

أَحْجَزَ وَالْحَجْرَ: مُلْكٌ حَاجِرٌ مِثْلُ
الْحَجْرِ: رُوكٌ جَانًا.

حَاجِرَةٌ: ایک دوسرے کو منع کرنا۔
تَحَاجَرُوا: بَعْضٌ كَالْبَعْضِ كَوَيْعٌ كَرَامًا أَوْ دَفَعٌ
کرنا۔

إِحْتَجَرَ: الشَّيْءُ: اِكْتَاهَا هُونًا..... بِهِ: بَازَرُهَا
..... بِأَلْأَزَارٍ: كَبَّرَ بِهَا نَدْحَانًا..... الشَّيْءُ: گود
میں اٹھانا..... الرَّجُلُ: حَاجِرٌ مِثْلُ آتَا.

السَّحْجَرُ وَالْحُجْرُ: بَرٌّ: قَبِيلَةٌ - كِتَارَةٌ -
السَّحْجَرُ: يَأْكُومُ دَامِنٌ - يَأْكُومُ
السَّحْجَرُ: مُلْكٌ عَرَبٌ كَالْأَيْكَةِ حَصَّةً - كَمَرَبَدٌ -
أَوْنَتٌ كَمَا نَدَحْنَا كِي رَسِي - گانے کا ایک
نغمہ۔

السَّحْجَرَةُ حَجْرٌ حَجْرٌ وَحَجْرَاتٌ وَحَجْرَاتٌ
وَحَجْرَاتٌ: اِزَارٌ بِأَمْرٍ كِي جَكَّةً - نَيْفَةٌ - كَمَا
جَاتَا فِي "فُلَانٌ طَيَّبَ السَّحْجَرَةَ" فُلَانٌ
يَأْكُومُ دَامِنٌ فِي "وَشَدِيدَةُ السَّحْجَرَةُ" یعنی
بِرَّاصِبَةٌ - "وَهَذَا كَالْمَاءِ أَحْبَبَ بَعْضُهُ
بِسَّحْجَرَةٍ بَعْضٌ" یعنی یہ کلام ایک دوسرے
کے ساتھ مربوط ہے۔

السَّحْجَرَةُ حَجْرٌ حَجْرَةٌ: رُوكٌ - فَاصِلَةٌ -

قَالِمٌ - الْحَاجِرُ حَجْرٌ حَجْرٌ: تَلْوَارِكِي دَهَارٌ -
بُرُوكٌ - فَاصِلٌ وَرُوكٌ -

السَّحْجَرُ: "الْبَارِي" - تَوْجِيحًا مَسْلُومًا
گولہ باری کہ دشمن کے سامنے آگ کی
دیوار بن جائے۔

السَّحْجَرُ: (الْحَرَارِي) - أَيْكٌ عِلْمِيَّةٌ اصْطِلَاحٌ اس
سے مراد وہ حرارت جو کہ طیاروں کے فضاء
میں نکلنے سے پیدا ہوتی ہے۔

السَّحْجَرُ: اِزَارٌ بِأَمْرٍ كِي جَكَّةً -
حَاجِرَةٌ حَاجِرَةٌ: مَقَابِلَةٌ - كَرَامًا - مَدَافِعَةٌ
کرنا۔

إِحْتَجَفَ: زَارِي كَرَامًا - كَرَامًا -
إِحْتَجَفَ: الشَّيْءُ: اِپْنَةُ لِي خَاصٌ كَرَامًا -
نَفْسُهُ عَنِ كَثْرَةِ: بَازَرُهَا -

السَّحْجَرَةُ: بَغِيرَةُ كَرَامِي كِي جَكَّةً - كَرَامًا -
ذَهَالٌ - سِينَةٌ - حَجْرٌ حَجْرٌ.

السَّحْجَرَةُ: جُوفٌ سِي نَفْسُهُ وَآوَانٌ -
السَّحْجَرَةُ: وَهُوَ مَشْهُومٌ جَسَدٌ كِي جَكَّةً -
جَبْرٌ فِي دَرُوكِهِ -

حَجْرٌ (نَضْرٌ) حَجْرٌ وَحَجْرَاتٌ: أَيْكٌ
نَاغٌ كُو دُوكِي نَاغِي كَرَامًا - كَرَامًا -
جَلَنًا - السَّحْجَرَةُ: دُونُوں پَاؤُنِ سِي كُو دُونَا.....
التَّعْبِيرُ: بِأَمْرٍ حَتَا -

حَجْرٌ حَجْرٌ: بَيْنَهُمَا: حَاطِلٌ كَرَامًا -
حَجْرٌ (نَضْرٌ) حَجْرٌ وَحَجْرَاتٌ: مِنَ الْعَيْنِ:
اِندَرُوكُو مَشْهُومٌ جَانًا -

حَجْرٌ: السَّحْجَرَةُ: دَلْبَنٌ كِي لِي كَرَامًا
آرَامَةً كَرَامًا - دَلْبَنٌ كُو آرَامَةً كَرَامًا
مِثْلُهَا - حَجْرٌ: السَّحْجَرَةُ: مِثْلُهَا -
السَّحْجَرَةُ: اِندَرُوكُو مَشْهُومٌ جَانًا - السَّحْجَرَةُ:
مَشْهُومٌ كَرَامًا - السَّحْجَرَةُ: دُونُوں پَاؤُنِ سِي
كُو دُونَا -

حَجْرٌ وَحَجْرٌ: الفَرَسُ: نَاغِيوں مِثْلُ
سَفِيدِي وَآوَانًا - صَفْتٌ (مَشْهُومٌ)
وَسَّحْجَرٌ: اِندَرُوكُو مَشْهُومٌ مِثْلُهَا
ہو تو اس کو حَجْرٌ: کہتے ہیں - حَجْرٌ
السَّحْجَرَةُ: بِأَمْرٍ حَتَا جَانًا -

السَّحْجَرَةُ: بِأَمْرٍ حَتَا جَانًا -

الخجل واحد خجلة ج خجلان وخجلى :
چکور۔

الخجل والججل والججل : پازیب۔
بیڑی۔ گھوڑے کی ٹانگ کی سفیدی۔ ج
أخجال وخجول۔

الخجلة : پردہ جو دلہن کے لئے مکان کے
انداز لگایا جائے۔ کرہ جو دلہن کے لئے
آراستہ کیا جائے۔ ج ججال وخجل :
عربوں کے قول "السجول لسرات
الججال" کے معنی یہ ہیں کہ پازیب عورتوں
کے لئے ہے۔

الخجلا : پانی جس کو دھوپ نہ لگے۔
الخجلة والخجولة : شیشی۔ ج خواجل
وخواجل۔

المخجل : من الخيل : ٹانگوں میں سفیدی
والا گھوڑا۔ يوم مخجل : خوشی کا دن اور کہا
جاتا ہے "امرأغر مخجل" بہت مشہور
معاملہ۔

خجم (ن ض) خجما، النعير : منہ پر جالی
لگانا۔ الخجم المرض : پچھنا لگانا۔
الحية : ذنا۔ الصبي ثدي امه : چوٹا۔
حجمه عن الشيء : منع کرنا۔ حجم طرفه
عنه : نگاہ پھیرنا۔

خجم (ن) خجما وأخجم، الثدي :
أبھرا۔ بلند ہونا۔ أخجمت المرأة
للمولود : بچی دفعہ دودھ پلانا۔ أخجم عن
الشيء : ڈر کر باز رہنا یا پیچھے ہٹنا۔
أخجم : پچھنا لگوانا۔

الججامة : پچھنا لگانے کا پیشہ۔
الخجم : جسم۔ جسم کی مقدار۔ أبھار جو ہاتھ
کے گزارنے سے محسوس ہو۔ ج خجوم۔
الججام : اونٹ کے منہ میں لگانے کی جالی۔
الخجم ج خجمام وخجمة (والخجمام)
کھینچنے لگانے والا۔

المخجم : پچھنا لگانے کی جگہ۔ ج مخجام
المخجم والمخجمة : پچھنے لگانے کا
اوزار۔ شیشی۔ ج مخجام۔

المخجم : خوف کی وجہ سے بہت پیچھے ہٹنے
والا۔

خجن (ن) خجنا وخجن. العود :
موڑنا۔ میڑھا کرنا۔ (.....) وأخجن الشيء
: میڑھے سر کے ڈنڈے سے کھینچنا۔ کہا جاتا
ہے "أخجن المال" اس نے مال کو جمع
کیا۔ نیز اس نے منتشر مال کو اکٹھا کیا اور اس
کی اصلاح کی۔ أخجن عليه : روک دینا۔
خجن (س) خجنا، بالدار : اقامت کرنا
..... عليه وہ بہ بخل کرنا۔

خجن : مز جانا۔ میڑھا ہوجانا۔
الخجن والخجنة : بچی۔ میڑھا پن۔
الخجنة : اپنے لئے مخصوص طریقہ سے جمع کی
ہوئی چیز۔ الخجن : جیچڑی۔

الأخجن : میڑھا۔ کہا جاتا ہے "صقور
أخجن المخالب" شکر میڑھے چنگل
والا۔ مؤث خجنا ج خجن۔
الخجون : کابل۔ کہتے ہیں "سرونا عقبة
خجون" ہم لمبی اور دور دراز گھائی پر چلے۔

المخجن والمخجنة : میڑھے سر والا
ڈنڈا۔ میڑھے سر والا۔ کہا جاتا ہے
"هو مخجن مال" وہ مال کا یعنی اوتوں کا
بہترین منتظم ہے۔ مخجن الطائر : چوچ۔

خجا (ن) خجوا : بھرنے۔ بالمكان :
اقامت کرنا۔ بالشيء : بخل کرنا۔ بہ
خيراً : گمان کرنا۔ السر : حفاظت کرنا۔
خجاه : قصد کرنا۔ بھروسہ کرنا۔ منع کرنا۔
القوم : بدلہ دینا۔ الامر : گمان کر کے دعویٰ
کرنا۔

خجى (س) خجى : بد۔ فریفتہ ہو کر لازم
ہونا۔

أخجاه إحصاء : بگڈا : لائق بنانا۔ کہا جاتا
ہے "ما أخجاه بگڈا" وہ اس کے کس قدر
لائق ہے۔

أخجاه إحصاء : پھیل پیش کرنا۔ یا عقل
وزیر کی میں مقابلہ کرنا۔ کہا جاتا ہے
"أخجيه فحقه" میں نے زیر کی میں

اس کا مقابلہ کیا اور میں غالب رہا۔

تخجى. بالشيء : فریفتہ ہو کر لازم ہونا۔
بالمكان : اقامت کرنا۔ کہا جاتا ہے
"تخجيتكم لى هذا المكان" میں تم سے
پہلے اس جگہ میں پہنچ گیا اور وہاں پر جم گیا
..... الشيء : قصد کرنا۔

أخجى. الشيء : چھپانا۔
تخجوا : آپس میں پھیل پیش کرنا۔
الججى : عقل وزیر کی جمع أخجاء۔
الججاء : کنارہ۔ گوشہ۔ ج أخجاء : پردہ۔

أخجاء : وادی کا موڑ۔ زمین کا بلند حصہ۔ ج
أخجاء وخجا. الشيء : کنارہ۔
أخجاء : بارش کا پانی پڑنے کی وجہ سے
بلبل۔ ج خجاء۔

الججى والججى : لائق۔
الأخجىة : جیتساں۔ پہیلی۔ ج أخجاسى
وأخج كلمة (مُخجبة ومُخجبة) پہیلی
دار کلمہ کہ جس کے الفاظ بظاہر معنی کے مخالف
ہوں۔ کہا جاتا ہے "انہ (المخجاة) ان
يفعل كذا" یعنی وہ یقیناً اس لائق ہے کہ ایسا
کرے۔

خدا (ن) خدا وحدا. الدار : حد مقرر کرنا
..... المذنب : حد جاری کرنا۔ الشيء عن
الشيء : جدا کرنا۔ اللہ عن الشر : روکنا۔
باز رکھنا۔ پھیرنا۔

خدت (ن ض) خدا وحدا. المرأة :
سوگ منانا۔ صفت (خاد) ج حواد۔
خدا وحدا وحدا وحدا. السكين : تیز کرنا۔
خدت (ض) حدة وأخذت. السكين :
تیز ہونا۔ باریک دھار ہونا۔

خدا (ض) خدا وحدا وحدا. عليه :
غضب ناک ہونا۔
خدا. الارض : حد دو قائم کرنا۔ اللہ ولہ :
قصد کرنا۔ الامر : معلوم کرنا۔ عليه :
غضب ناک ہونا۔ السزغ : بارش مؤخر
ہونے کی وجہ سے پیچھے آگنا۔

خداة : دشمنی کرنا۔ باہم غضب ناک ہونا۔

خاڈت ارضہ ارضی: پڑوس میں ہونا۔
أَخَذَ: إِلَيْهِ النَّظَرُ: گھورنا۔ تیز نظر کرنا۔
أَحَدَتْ السَّمْرَةَ: شوہر کے مرنے پر سوگ
کرنا۔ صفت (مُحَدِّثٌ مُجَدِّدٌ)
تَحَدَّدَ: بِهِمْ: ورپے ہونا۔
تَحَاذًا: يَا هُمْ غَضِبَ نَاكٌ هُوَا۔
إِخْتَدَّ: قَوِي هُوَا..... عَلَيْهِ: غضب ناک
ہونا۔

إِسْتَحَدَّ: دھارتیز کرنا۔ شرم گاہ کے بال
موٹنا۔

السَّحْدُ: مَصْ - دو چیزوں کے درمیان کی
روک۔ تم کہتے ہو "ذَارَةُ حَدَّ ذَارِي" اس کا
گھر میرے گھر کے پڑوس میں ہے۔
وَالْحَدُّ: کسی چیز کی انتہا۔ الْحَدُّ مِنَ السَّيْفِ:
تلوار کی دھار..... مِنْ الشَّرَابِ: شراب کی
تیزی مِنْ الْإِنْسَانِ: دبدبہ اور غضب کی بنا
پر جو کیفیت پیدا ہو۔ من کل شیء: تیزی۔
حَدَّ الشَّيْءِ: جامع مانع تعریف۔ سزا۔ ج
خُدُوذٌ. وَخُدُوذُ اللَّهِ: اطاعت الہی و احکام
شرعیہ۔

السَّحْدُ: مَصْ - ممنوع۔ کہا جاتا ہے "ہذا
امر حَدْ" یعنی یہ امر ممنوع ہے اس کا کرنا
جائز نہیں "وہذا خَبْرٌ حَدْ" یہ خبر باطل و
جموٹ ہے "وَدُوْنُ هَذَا حَدْ" اس کے
ورے مماقت ہے "وَخُدُوذٌ أَنْ يَكُونَ
هَذَا" اللہ کی پناہ کہ ایسا ہو۔

الْحَدَادُ: حَدَّتِ السَّمْرَةُ: کا مصدر۔ سیاہ
ماتنی لباس۔

السَّحْدَادُ: تیزی والا۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ
حَدَادٌ" تیزی والا مرد۔ سکین حَدَادٌ: تیز
چھری۔ ج اِحْدَةُ اور کہا جاتا ہے "حَدَادُكَ
أَنْ تَفْعَلَ كَذَا" تمہاری انتہائی کوشش یہ ہے
کہ تم ایسا کرو۔

الْحَدَاذَةُ: بیوی۔
الْحَدَاذَةُ: لُوہاری۔

السَّحْدِيْدُ: لُوہا۔ مضبوط اور سخت لوہے کے
"ذَکْرٌ" اور نرم کو "أَنْثَى" اور "أَنْثِيَّتٌ" سے

تعبیر کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے "ہو
حَدِيْدِي" وہ میرا پڑوسی ہے۔ "وَدَارِي
ذِيْدَةُ دَارِهِ" میرا گھر اس کے گھر کے پڑوس
میں ہے۔

السَّحْدِيْدُ: ج اِحْدَاءٌ وَحَدَادٌ: کاٹنے والا۔
کہا جاتا ہے "سَيْفٌ حَدِيْدٌ" کاٹنے والی
تلوار۔ جَلَّ حَدِيْدٌ: تیز فہم یا سربلج
الغضب۔

السَّحْدِيْدَةُ: لُوہے کا ٹکڑا۔ ج حَدَائِدُ
وَخَدِيْدَاتٌ وَجَجَّ حَدَائِدَاتٌ حَدِيْدَةٌ
النَّخْرُ: ہل کی پھار۔ السَّحْدِيْدَةُ: چھچھ۔

السَّحْدَادُ: لُوہار۔ لُوہا بیچنے والا۔ دربان۔
جیلر۔ زرہ سالہ۔ شراب فروش۔ سمندر۔
السَّحْدُوْدُ: حد بندی کیا ہوا۔

حَدَا (ف) حَدَا: الشَّيْءُ عَنْهُ: پھیرنا۔
بٹانا۔

حَدِيٌّ (س) حَدَا: بِالسَّمَكَانِ: کسی جگہ میں
جم کے رہ جانا..... إِلَيْهِ: پناہ لینا..... إِلَيْهِ
وَعَلَيْهِ: مہربانی کرنا۔ مدد کرنا۔ ظلم سے بچانا
..... عَلَيْهِ: غضب ناک ہونا۔

السَّحْدَاةُ: دوسروں کی کدال۔ ج حَدَاو حَدَاءُ:
السَّحْدَاةُ: جیل۔ عوام حَدِيَّةٌ: کہتے ہیں۔ ج
جَدَاو حَدَاءٌ وَجَدَانٌ.

حَدِبٌ (س) حَدَبًا وَأَخَذَبَ: الرَّجُلُ:
کبڑا ہونا..... صفت (حَدِبٌ وَأَخَذَابٌ)
مَوْنَتْ حَدِيْبَةٌ وَخَدَبَاءُ: ج حُدْبٌ
وَأَخْدَابٌ. وَخَدِيْبَاتٌ. حَدِبٌ عَلَيْهِ:
مہربان ہونا۔

حَدْبٌ وَأَخْدَبٌ: کبڑا بنانا۔ حَدْبُ الشَّيْءِ:
کسی چیز کو ابھرا ہوا بنانا۔

تَحَدَّبَ: کبڑا ہونا..... عَلَيْهِ: مہربان..... بِهِ:
تعلق رکھنا۔ السَّمْرَةُ: بچوں پر مہربانی کی وجہ
سے دوسرا نکاح نہ کرنا۔

إِحْدُوذٌ وَتَحَاذَبٌ: کبڑا ہونا۔
إِحْدُوذٌ الرَّهْلُ: لمبا اور تیز ہا ہونا۔

التَّحْدَبُ: مَصْ - کبڑا پن۔ مَوْنَجٌ - لہر۔ کھال
کے اندر نشان۔ زمین کی اونچی جگہ۔ ایک قسم

کی گھاس۔

الْحَدْبَاءُ: قَطْعُ كَاسَالٍ - دشوار امور۔ لاش۔

السَّحْدَبَةُ: کبڑا پن۔ پیٹھ میں کبڑا ہونے کی
جگہ۔ کہا جاتا ہے "فِي ظَهْرِهِ حَدْبَةٌ" اس کی
پیٹھ میں کبڑا پن ہے۔ مِنْ الْأَرْضِ: بلند و
سخت جگہ۔

الْإِخْتَدَبُ: تلووار۔ ہاتھ کی ایک رگ کا نام۔
امر أَخَذَبَ: دشوار کام۔

السَّحْدَبُ: کبڑا۔ مِنْ السَّخَطِطِ: النَّجْرِي
ہوئی کبیریں۔ لَبِنٌ (حَدْبَةٌ) ہما ہوا دودھ۔

حَدَثٌ (ن) حُدُوْتًا. الْأَمْرُ: واقع ہونا۔
(..... حَدَاةٌ وَحُدُوْتًا) نوپید ہونا اور جب
قَدَمُ کے مقابلے میں ہوتے ہیں تو تین مکہ کو
ضمرہ دیتے ہیں جسے "أَخَذَبِي مَأَقْدَمٌ
وَمَاخَذَتْ" یعنی مجھ کو نئے پرانے غموں نے
گھیر لیا۔ اس کے علاوہ دوسری جگہ ضمرہ نہیں
دیتے۔

حَدَثٌ. عَنْ فُلَانٍ: روایت کرنا۔ کذا
وَبِكَذَا: خبر دینا۔ بیان کرنا۔

حَادَّةٌ: كَفَّتَلُو كَرْنَا - حَادَثَ السَّيْفُ: تلووار کو
جلا دینا اور اسی سے ہے "كَنْصَلُ السَّيْفِ
خُوْدُثٌ بِالصَّقَالِ" مانند تلووار کی پھل کے کد
ہمتقل کرنے سے جلا دیا گیا ہو۔

أَحْدَثْتُ: ایجاد کرنا۔ پیدا کرنا۔ أَخَذْتُ
السَّرَجُلُ: پناخانہ کرنا۔ السَّيْفُ: تلووار کو جلا
دینا۔

تَحَدَّثَ: بِالشَّيْءِ عَنِ الشَّيْءِ: كَفَّتَلُو كَرْنَا - خبر
دینا۔

تَحَادَثُوا: يَا هُمْ كَفَّتَلُو كَرْنَا۔

إِسْتَحْدَثْتُ: پیدا کرنا۔ الخَيْرُ: نیا پانا۔ رَجُلٌ
(جَدْتُ) ملوک: بادشاہوں کا قصہ گو۔

التَّحْدِثُ وَالتَّحَدُّثُ: اَجْمَعِي كَفَّتَلُو كَرْنَا وَاللَّا۔
السَّحْدَثُ: نئی چیز۔ خلاف سنت۔ نئی بات۔

وَرَيْنٌ مِّنْ نَّيِّبَاتٍ: پانچخانہ۔ ج أَخْدَاتٌ
وَأَخْدَاتُ السَّهْرِ: زمانہ کے مصائب۔

التَّحَدُّثُ: جَوَانٌ - ج أَخْدَاتٌ وَحَدَثَانٌ.

السَّحْدَاةُ: مَصْ - حَدَاةٌ الْأَمْسِرُ: آغا ز

واہتداء۔

الحَدَّثِي: نئی۔

الحَدَّثُوثة: آغاز وابتداء۔

الجَدَّتَان: آغاز وابتداء حدثان الدهر

وحدثانہ: زمانہ کی سختیاں۔

الأَحْدُوثة: بات۔ افسانہ۔ کہانی۔ ج

أَحَادِيث۔

حُدُوثُ الْعَالَم: فلاسفہ کے نزدیک دنیا کا

حادث ہونا۔ اس کے صانع نے اس کو نیا

بنایا ہے وہ ازل سے نہیں۔

السَّحَابِيث: نوپید چیز۔ قدیم کی ضد۔ ج

حَوَادِثُ. وَحَادِثَاتُ. حَوَادِثُ الدَّهْرِ:

زمانہ کے مصائب۔

السَّحِيثُ جَ حَدَاثٍ وَحُدُثَاءُ نِيَا۔

السَّحِيثُ جَ أَحَادِيثٍ وَحَدَثَانٍ وَحُدَّتَانِ:

خبر۔ کہا جاتا ہے "صَارُوا أَحَادِيثًا" یعنی وہ

لوگ ختم ہو گئے صرف ان کی بات ہی بات

باقی رہ گئی۔ وعلوم الحدیث: نبی کریم ﷺ

کے اقوال افعال و احوال بتانے والا علم۔

السَّحِيثُ: بہت گفتگو کرنے والا۔

السَّحِيثُ: گفتگو کرنے والی جماعت۔

السَّحِيثُ: خبر حدیث۔

السَّحِيثُ: مفتح کتاب و سنت و اجتماع کے

خلاف نئی بات۔ جَ مُحَدَّثَاتُ نِيَا۔

مُتَّحَدَّثُ. الْقَوْمُ: قوم کے گفتگو کرنے کی

جگہ۔

حَدَج (ض) حَدَجَا. البعير: اونٹ پر

کجاوہ باندھنا..... الاحمال: باندھنا.....

الابل: داغ لگانا..... ۵: مارنا۔ حَدَجَةُ

بالسهم: تیر اندازی کرنا..... ۵: بالذنب:

تہمت لگانا۔ کہا جاتا ہے "حَدَجَهُ ببيع

سوء" اس نے ایسی بیچ اس پر لازم کر دی

جس میں گھاتا ہے۔

حَدَج وَحَدَج: بصرہ: گھورنا۔ تیز دیکھنا۔

أَحَدَج. البعير: اونٹ پر بوجھ لادنا۔ اونٹ

پر کجاوہ کسنا۔

السَّحَدَج: بوجھ۔ جَ حَدَج وَحَدُوج

وَأَحْدَج. (.....) وَالْحَدَاجَةُ) مَحَاذِيكَ مَانِد

عورتوں کی ایک سواری۔ جَ حَدَايِج.

الحَدَج: کچا اور سخت اندر آن۔ کچا خر بوزہ۔

أَبُو حَدِيَج: اُتلق پرندہ کی کنیت۔

السَّحْدَج: اونٹوں کے داغ لگانے کا

اوزار۔

حَدْرٌ وَحَدْرٌ (ن وک) حَدْرًا وَحَدْرًا

وَحَدَارَةٌ. الرجلُ: مضبوط و موٹا ہونا۔

..... الجِلْدُ: سو جتا۔ حَدْرًا وَحَوْلَهُ وَه:

گھیر لینا۔

حَدْرٌ (ن و ض) حَدْرًا وَحَدْرًا: نیچے

اُتَرْنَا. الشَّيْ: نیچے اُتارنا..... اللِّثَامُ عَنْ

سَحَنِكِهِ: جھکانا..... العَيْنُ الدَّمْعُ: آنسو بہانا۔

المِرْقَاةُ فِي القِرَاءَةِ: تیزی سے پڑھنا۔

..... الدَّوَاءُ يَطْنُهُ: اسہال لانا۔

تَحَدَّرٌ وَتَحَادَرٌ: اُتَرْنَا۔ کہا جاتا ہے "زَابِثُ

الدَّمْعُ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ" میں نے دیکھا

کہ آنسو اس کی داڑھی پر بہ رہا تھا۔

السَّحْدَرُ: نیچے۔ کہا جاتا ہے "السَّحْدَرُ مِنَ

السَّجَلِ السَّيِّئَةِ" میں پہاڑ سے شہر کی

طرف اُتَرَا۔ الجِلْدُ: سو جتا۔

السَّحْدَرُ: ڈھلوان جگہ۔ وہ جگہ جہاں سے اُتَرَا

جائے۔ آنکھ کا بھینکا پن۔

السَّحْدُورُ وَالسَّحْدُورُ وَالسَّحَادُورُ: وہ جگہ

جہاں سے اُتَرَا جائے۔ السَّحَادُورُ: اسہال

لانے والی رو۔ جَ حَوَادِيحُ.

السَّحْدُورَةُ: پپوٹے کے اندر کا زخم۔ عَيْنُ

حَدْرَةٍ: نہر گوشت آنکھ۔

السَّحْدُورَةُ: اونٹوں کا ریوڑ۔

السَّحَادِرُ: قا۔ موٹا خوبصورت جَبَلٌ حَادِرٌ:

بلند پہاڑ۔ جَبَلٌ حَادِرٌ: مضبوط یعنی ہوئی

رشی۔ حَيٌّ حَادِرٌ: جمع شدہ قبیلہ۔ السَّحَادِرُ:

شیر۔ کہا جاتا ہے "سَاقَةُ حَادِرَةَ العَيْنَيْنِ" پُر

گوشت خوبصورت آنکھوں والی اونٹنی۔

السَّحْدَرُ: مِنَ الخَيْلِ: نہر گوشت گھوڑا۔ مِنَ

السَّرَجَالِ: ایک چیز کو دو (۲) دیکھنے والا۔

مَوْنَتُ حَدْرَاءُ.

الحَدُّورَةُ وَالحَدُّورَةُ وَالحَادُّورَةُ: نسووس

کا بہاؤ۔

السَّحْدَرُ وَالسَّحْدُورُ وَالسَّحْدُورَةُ

وَالسَّحْدَارَةُ: آنکھ کی سیاہی۔ جَ حَسَادِرُ کہا

جاتا ہے "جَعَلْتُهُ عَلَى حَدُّورَةٍ عَيْنِي

وَجَعَلْتُهُ عَيْنِي" میں نے اس کو اپنا نسب

الْحَمِينُ بنایا۔

السَّحْدَرُ: شیر۔ پست قد۔

السَّحْدَرَةُ: شیر۔ ہلاکت۔ کہا جاتا ہے "زَمَانَةُ

اللَّهِ بِالسَّحْدَرَةِ" اللہ اس کو مصیبت و ہلاکت

میں مبتلا کرے۔

حَدَسٌ (ن و ض) حَدَسًا. فِي الامر: گمان

کرنا۔ تَحْدِيحُ کرنا۔ وہم کرنا۔ الشَّيْ بِسَرِّجِلِهِ:

روٹنا۔ زَيْدًا: پچھاڑنا۔ السَّلَّةُ وَبالشَّاةِ:

زبح کرنے کے لئے لٹکانا۔ فِى الارض:

انگل سے چلنا۔ فِى السَّيْرِ: تیز چلنا۔ حَدَسٌ

بِه الارض: چنگ دینا۔

تَحْدَسُ. الاحْبَارُ وَعَنِ الاحْبَارِ: چھپ کر

دریافت کرنے کی کوشش کرنا۔

السَّحْدِيْسُ وَالمَّحْدُوْسُ: زمین پر پچھاڑا

ہوا۔

السَّحْدُوْسُ: اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے

والا۔

السَّحْدَسُ: ہمس۔ دانائی۔ زیرکی۔

السَّحْدِيْسِيَاتُ: دانائی اور زیرکی سے معلوم کی

ہوئی باتیں۔

السَّحْدَسُ: غایت۔ انتہاء۔ کہا جاتا ہے

"بَلَّغْتُ بِه السَّحْدَسُ" میں اس کی انتہاء کو پہنچ

گیا۔

السَّحْدَسُ: مطلب۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ

بَعِيْدٌ مَحْدَسٌ" فلاں کا مطلب بڑا ہے۔

حَدَقَ (ض) حَدَقًا. الْقَوْمُ: گھیر لینا۔

حَدَقَهُ بِعَيْنِي: کسی کی طرف دیکھنا..... ۵: آنکھ

کی سیاہی پر مارنا۔ المَرِيضُ حُدُوْقًا: بیمار کا

آنکھ کھولنا اور دیکھنا۔

أَحْدَقَ. الْقَوْمُ بِه: گھیر لینا۔ أَحْدَقْتُ

الرَّوْضَةَ: باغ میں چار دیواری ہونا۔

حَدَقَ، اليه: گھورتا۔ تیز نظر سے دیکھنا۔
حَدَقَ بِهِ: چاروں طرف سے گھیر لینا۔
تَحَادَقُوا: ایک دوسرے کو گھیر لینا۔
إِخْدُوذَقِ: القومُ به: گھیرنا۔ احاطہ کرنا۔

الْحَدَقَةُ: آنکھ کی سیاہی۔ ح حَدَقَ
وَحَدَقَاتٍ وَإِخْدَاقٍ وَجِدَاقٍ: کہا جاتا ہے
"فَهُمْ فِي مِثْلِ حَدَقَةِ الْبَعِيرِ" وہ لوگ فراخی
میں ہیں اور ان کے پاس پانی بہت ہے۔
"وَهُمْ رَمْسَةُ الْحَدَقِ" یعنی وہ لوگ تیز
اندازی میں بڑے ماہر ہیں۔ وَتَكَلَّمْتُ
عَلَى حَدَقِ الْقَوْمِ: میں نے قوم کی نگاہ کے
سامنے گفتگو کی۔
الْحَدَقُ: بگین۔

الْحَدَيْفَةُ: باغ جس کی چار دیواری ہو۔ ح
حَدَّافِقُ.

حَدَلَ (ض) حَدَلًا وَخُدُولًا: عَلَيْهِ: کسی
پر ظلم کرنے کے لئے مائل ہونا۔

حَدَلَ (س) حَدَلًا: پے نسبت دوسرے
کندھے کے ایک بلند کندھے والا ہونا۔
الرَّجُلُ: ہتکتیوں سے دیکھنا۔ صفت أَخْدَلَ
مَوْثٌ حَدَلًا ح حَدَلَ (شاذ) وَ(حَدَلَ)
ح حَدَالِي. حَدَلَ عَلَيْهِ: ظلم کرنا۔

حَادَلَةٌ: پھسلانا۔

تَحَادَلُ: کمان پر بھٹکانا۔

الْحَدَلُ: ازار یا نڈھنے کی جگہ۔ گردن کا
درو۔

الْحَدَلُ: مصل۔ کہا جاتا ہے "إِنَّهُ لِحَدَلٌ" وہ
غیر عادل ہے۔

الْحَدَالُ: چکنا و ہموار۔

مُحَدَلَةُ الطَّرْفِ: شوارع کو درست کرنے
والی گاڑی۔

الْحَوْدَلَةُ: پشت۔ ٹیلہ۔

حَدَمَةٌ (ض) حَدَمًا: تیز گرم کرنا۔ الدَّمُ:
گہرا سرخ کرنا۔

إِخْتَدَمَ: السَّهَارُ: سخت گرمی والا ہونا۔
الشَّرَابُ: تیزی بڑھ جانا۔ إِخْتَدَمْتُ
الْقَدْرُ: سخت جوش والی ہونا۔

إِخْتَدَمَ وَتَحَدَّمَ: الرجلُ: غصہ سے بھڑک
اٹنا۔ سخت غضبناک ہونا۔ إِخْتَدَمَ الدَّمُ: گہرا
سرخ ہونا۔ عَلَيْهِ غَيْظًا: غصہ سے دانت
پیٹنا۔

الْحَدَمَةُ: آگ کے بھڑکنے کی آواز۔
الْحَدَامُ: غصہ۔ غضب۔

حَدَا (ن) حَدَا وَوَحَدَاءَ وَحَدَاءَ: حدی
پڑھنے میں آواز بلند کرنا۔ کہا جاتا ہے
"مَا أَمْلَحَ حَدَاءَهُ" اس کا حدی پڑھنا کس
قدر عمدہ ہے۔ الايْلُ وَبِالايْلِ: گا کر ہانکنا۔
صفت (حَادٍ) ح حَدَاةً الريح
السَّحَابُ: ہانکنا۔ چلانا۔ حَادَاهُ عَلَيَّ كَذَا:
برا بھینٹ کرنا (وَإِخْتَدَى) اللَّيْلُ النَّهَارُ: پیچھے
آنا۔

الْحَادِي وَحَادِي النَّجْمِ: دو ستاروں کے
نام اور حَادِي عَشْرٌ میں حَادِي واحد کا مقلوب
ہے۔

الْحَدَاءُ: حَادِي کا مبالغہ اور حَادِي اس کو کہتے
ہیں جو اونٹوں کو گا کر ہانکے۔

الْحَدَوَاءُ: شمالی ہوا۔

الْحَوَادِي: ہر چیز کے آخری حصے۔ ناگھلیں۔
الْأَحْدُوَّةُ وَالْأُحْدِيَّةُ: اونٹوں کے ہانکنے کا
گیت۔

حَدِي (س) حَدَى. بِالْمَكَانِ: کسی جگہ میں
جم کے رہنا۔

تَحَدَى. الرَّجُلُ: مقابلہ کرنا۔
(..... وَحَدَى) الشَّيْءُ: کرنے کا ارادہ کرنا۔

الْمُحَدِّثُ: جھگڑا۔ مقابلہ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ
حَدِّثُ النَّاسِ" وہ لوگوں سے مقابلہ کرنے
والا ہے "وَإِنَّا لَخَدِيثَاكُ فِي هَذَا أَمْرٌ" میں
اس معاملہ میں تیرا مقابلہ کرنے والا ہوں۔

حَدَّةً (ن) حَدَاً: جلدی سے کاٹنا۔
الْحَدْدُ: ہاتھ یا دم کا ہلکا پن۔ وَحَدْدُ الْقَلْبِ:
تیزی خاطر۔ تیز بینی۔

الْأَحْدُ: نلکے ہاتھ یا دم والا۔ تیز۔ دِلا۔ امر
أَحْدُ: امر منکر۔ سخت امر۔ بے مثل۔ قَلْبٌ
أَحْدٌ: ذکی۔ مَوْثٌ حَدَاءً کہا جاتا ہے "نَافَقَةٌ

حَدَاءً" تیز رفتار "وَقَصِيدَةٌ حَدَاءً" ہمشبور۔
قصیدہ۔ "وَخَاصَجَةٌ حَدَاءً" جلدی پوری اور
کامیاب ہونے والی حاجت۔ "وَعَزِيمَةٌ
حَدَاءً" پختہ ارادہ۔ ح حَدَّ.
الْحَدَّةُ: گوشت کا ٹکڑا۔

حَدِيرٌ (س) حَدِيرًا وَجَدِيرًا وَمُحَدَّرَةٌ
الرَّجُلُ وَمِنَ الرَّجُلِ: پختا۔ پرہیز کرنا۔
چوکنار رہنا۔ صفت (حَدِيرٌ وَحَدِيرٌ) ح
حَدِيرٌ وَخَزَارِيٌّ.

حَدِيرَةٌ: خوف دلانا۔ متنبہ کرنا۔ چوکنار کرنا۔
حَادِرَةٌ: ایک دوسرے سے پرہیز کرنا۔
ذرتے رہنا۔ (..... وَتَحَدَّرُ مِنْهُ) (إِخْتَدَّرَةٌ)

پرہیز کرنا۔ بچتے رہنا۔
إِخْدَارٌ: غضبناک و متعجب ہونا۔

الْحَادِرُ: فاق۔ مستعد و تیار۔
الْحَادِرَةُ: بہت چوکنار۔

حَدَّارٌ: اسم فعل بمعنی بچو۔ کہا جاتا ہے
"حَدَّارِيكَ زَيْدًا" یعنی زید سے بار بار
بچو۔

الْحَدَّارِيَّاتُ: ڈرانے والے۔

الْحَدَّرِيَّانُ: چوکنار بننے والا۔
الْحَدَّرِيُّ: باطل۔

الْحَدَّرِيُّ: ڈرانے والا۔ کہا جاتا ہے "إِنَّا
خَدَّرِيكَ مِنْهُ" میں تم کو اس سے ڈراتا
ہوں۔

الْمُحَدَّرُ: وہ چیز جس سے پرہیز کیا جائے۔
الْمُحَدَّرَةُ: گھبراہٹ۔ بلا و مصیبت کہ جس
سے پرہیز کیا جائے۔ جنگ۔

حَدَفَهُ (ض) حَدَفًا: گرانا۔ کاٹنا۔ بالعصاء
او الحَجَرِ: لاشی یا پتھر سے مارنا۔ حَذَفَ فِي
مَشِيَّتِهِ: قریب قریب قدم رکھنا۔
حَذَفَ: الشَّيْءُ: اچھی طرح سے کرنا۔ (گویا
کہ جن چیزوں کا علیحدہ کرنا ضروری ہے ان
کو علیحدہ کر دیا۔ جس کی وجہ سے سارے
عیوب سے پاک صاف ہو گیا)..... شَغْرُهُ:
زلف نکالنا۔ ہموار کرنا۔

تَحَدَفَهُ: بالعصاء: مارنا یا پھینک کر مارنا۔

الْحَذْفُ: بمص. چھوٹی بھیڑیں۔ حَذْفُ الزَّرْعِ: بھتی کے پتے۔
 الْحَذْفُ: ایک قسم کی بڑ۔ واحد حَذْفَةٌ.
 الْحَذْفَةُ: پست قدم عورت۔
 الْحَذَافَةُ: مِنَ الشَّيْءِ: تھوڑا تراش۔
 الْجَذْفَارُ وَالْحَذْفُورُ: حَذْفِيفِيرُ: جانب۔
 جماعت کثیر۔ آمادہ جنگ لوگ۔ کہا جاتا ہے
 "أَشْدُّ حَذْفِيفِيرِك" یعنی آمادہ ہو جاؤ۔
 وَأَخَذَهُ أَوْنَالُهُ بِحَذْفَارِهِ وَبِحَذْفُورِهِ
 وَبِحَذْفِيفِيرِهِ" اس نے اس کو تھام لیا۔
 حَذَقٌ (ض) حَذَقٌ (س) حَذَقْنَا
 وَحَذَقْنَا وَحَذَقْنَا وَحَذَقْنَا وَحَذَقْنَا: ماہر
 ہونا۔ صفت (حاذق) ح حَذَقٌ وَحَذَقْنَا
 الْكُتَابَ: پوری پڑھ لینا۔ العمل: ماہر ہونا۔
 حَذَقٌ (ض) حَذَقْنَا: الخُلُّ: بہت کھنا
 ہونا۔
 حَذَقٌ (ض) حَذَقْنَا: الشُّيْءُ: کاٹنا..... الخُلُّ
 فَاه: چر پراہٹ لگنا۔
 حَذَقَهُ: ماہر بنانا۔
 تَحَذَّقٌ: ماہر ہونا۔ وَتَحَذَّقٌ عَلَيْهِ: مہارت
 ظاہر کرنا۔
 اِنْحَذَقْتُ: کٹ جانا۔ کہا جاتا ہے "حَذَقْتُ
 السَّيْفَ فَانْحَذَقْتُ" میں نے رسی کو کوٹا پس وہ
 کٹ گئی۔
 الْجَذْفَةُ: کھرا۔ ح حَذَقٌ وَحَذَقْنَا: (آخری
 جمع شاذ ہے۔)
 الْحَاقِقُ: قاق۔ ح حَذَقٌ وَحَذَقْنَا..... من
 الخُلِّ: بہت تیز سر کر۔
 الْحَذِيقُ: کھنا ہوا۔
 الْأَحْذَاقُ: بکڑے۔ کہا جاتا ہے "حَبْلٌ
 أَحْذَقٌ" کئی ہوئی رسی (جمع کے ساتھ صفت
 ہے جیسے ثوبِ اخلاق میں)
 السَّجْدَاقُ: سجدے کا ختم قرآن۔ ختم قرآن کی
 دعوت۔
 الْحَذَاقَةُ: تھوڑا کھانا۔
 الْحَذَاقِيُّ: فصیح زبان والا۔ تیز چھری
 گدھے کا بچہ۔

حَذَلْتُ (س) حَذَلْنَا: العَيْنُ: گری ہوئی
 پلکوں والا ہونا۔ صفت (حَذَلَاءُ)
 أَحْذَلُ: العَيْنُ: پلک گرا دینا۔
 تَحَذَلُ: عَلَيْهِ: مہربان ہونا۔
 الْحَذَلُ: ميلان (.....) وَالْحَذَلُ وَالْحَذَلُ
 كَيْزُ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ: گولائی۔
 الْحَذَالَةُ: ایک قسم کی سرخ گوشت۔ چاول
 وغیرہ کی بھوسی۔ گرتے کے دامن کی گولائی۔
 حَذَلْتُ وَتَحَذَلْتُ: حذقت ظاہر کرنا یا
 حذقت کی ڈیک مارنا۔ کہا جاتا ہے "أَنَّهُ
 يَحْذَلُ فِي عَمَلِهِ" وہ اپنی گفتگو میں
 ظریف اور ہوشیار بنتا ہے۔
 حَذَلْتُ: الشُّيْءُ: تیز کیا جانا۔
 رَجُلٌ حَذَلٌ: بے فائدہ ڈیک مارنے والا
 گئی۔
 حَذَلْتُ: جلدی کرنا۔ العود: چھیل کر تیز کرنا
 السقاء: بھرتا۔
 تَحَذَلْتُ: جلدی کرنا یا ادب ہونا۔
 الْحَذَلُومُ: پکا پھکا جلد باز۔
 حَذَمَهُ (ض) حَذَمْنَا: كَانْنَا..... (حَذَمْنَا)
 فِي مَشِيئَةٍ: تیز چلنا۔ دیر کرنا۔
 الْحَذِيمُ وَالْحَذِيمُ وَالْمَحْذَمُ: مِنَ
 السَّيْفِ: بشمیر براں۔
 الْحَذَمُ: بازو کے ہونے پر بندہ کی اڑان۔
 حَذَمٌ: ایک عورت کا نام جس کا لقب زرقاء
 یہاں تھا اور جو تیزی نظر میں ضرب المثل تھی۔
 الْحَذَامُ: ست و کابل۔ کہا جاتا ہے "اشترى
 عَيْدًا حَذَامَ الْمَشِيِّ" اس نے ست رفقار
 غلام خریدا۔
 حَذَا (ن) حَذَوْنَا وَحَذَانَا: النُّعْلُ: نمونہ پر
 کانا۔ حَذَا لِنُعْلٍ بِالنُّعْلِ: ایک برابر قطع
 کرنا۔ حَذَاةٌ وَحَذَاةٌ: بیرونی کرنا۔ نعل
 کرنا حَذَاةٌ وَحَذَاةٌ وَأَخَذَهُ نَعْلًا: جوڑ
 پہنانا۔ جوڑ دینا۔ جوڑ بنانا۔ حَذَا الشَّرَابِ
 لِسَانَهُ: زبان کو چھیل دینا..... الشَّرَابُ فِي
 وَجْهِهِمْ: خاک ڈالنا۔ زیداً شَيْئاً: کسی کو
 کچھ دینا۔

حَذَاةٌ وَحَذَاةٌ مُخَاذَاةٌ وَحَذَاةٌ: مقابل میں
 ہونا۔ مقابل میں بیٹھنا۔
 تَحَذَاةً: ایک دوسرے کے مقابل ہونا۔ کہا
 جاتا ہے "هَسُو فُلَانٌ يَتَحَذَاةً مِنَ الْمَاءِ" فلاں
 کی اولاد پانی آپس میں برابر تقسیم کرتی ہے۔
 اِحْتَذَى: جوڑ پہنانا..... مثال فلاں وعلی
 مثاله: بیروی کرنا۔ مشابہت کرنا۔
 اسْتَحَذَاةً: جوڑ طلب کرنا۔
 الْجِذَاءُ وَالْحِذَّةُ وَالْحَذْوُ وَالْحَذْوَةُ
 وَالْحِذْوَةُ: مقابل برابر۔ کہا جاتا ہے
 "دَارِي جِذَاءَ دَارِهِ" میرا گھر اس کے گھر
 کے مقابل ہے "وَجَلَسَ جِذَاءَهُ
 وَبِجِذَانِهِ" وہ اس کے مقابل بیٹھا۔
 الْجِذْوَةُ وَالْحِذْوَةُ: عطیہ۔ گوشت کا ٹکڑا۔
 الْحِذَاةُ: بیت۔
 الْجِذَاءُ: جوڑ۔ اُونْتُ يَأْخُذُ عَيْسَى كَأَسْمَ حَسْرٍ
 پڑے۔ ح حَذِيَّةٌ.
 الْحِذَاءُ: جوڑ بنانے والا۔ ح حَذَاؤُونَ کہا
 جاتا ہے "هَسُو (مُحَذَاةً) كَمَا تَهَارَى
 مَقَابِلَ عَيْسَى".
 حَذَى (ض) حَذَيْنَا: الخُلُّ لِسَانَهُ: زبان کو
 چھیل دینا..... يَذَهُ: كَانْنَا..... ہ بلسانہ: گالی
 دینا۔ غیبت کرنا۔
 أَخَذَاهُ إِحْذَاءً: مالِ غَنِيمَةٍ كَاحْصَةٍ وَيَأْخُذَاهُ
 طَعْنَةً: تیزہ مارنا۔
 السُّحْدَانِيَا وَالْحِذْيَانِيَا وَالْحِذْيَانِيَا: مالِ
 غَنِيمَةٍ كَاحْصَةٍ. وَالْحِذْيَانِيَا: بَدِيَّةٌ جُوبِشَارَتِ
 دِيْنَةَ وَكُوَيْبَةَ يَأْجَأُ.
 السُّحْدَانِيَّةُ: ہیرا۔ گوشت کا ٹکڑا جو لہبا کا
 جائے۔
 الْمِحْذَاءُ: لوگوں کی بہت غیبت کرنے والا۔
 حَسْرٌ (س) حَسْرًا: العَبْدُ: آزاد ہونا
 (حَسْرِيَّةٌ) شَرِيْفُ الْأَصْلِ: ہونا..... حَسْرَةٌ.
 پیا سا ہونا۔
 حَسْرٌ (س ن ض) حَسْرًا وَحَسْرَةً وَحَسْرًا
 حَسْرًا: گرم ہونا۔
 حَسْرٌ (ن ض) حَسْرًا: الْمَاءُ: گرم کرنا۔

حَرْثُ (نض) حَرْثًا، الارضُ: بل چلانا
 کھیتی کرنا۔ صفت (حَسْرَات) حَسْرَاتٌ.
 حَرْثُ المال: کمائی کرنا۔ جمع کرنا..... النارُ:
 کریدنا۔ الشَّيْءُ: اچھی طرح مطالعہ کرنا۔
 الاَمْرُ: یاد کر کے بھڑک اُٹھنا..... الحُجْرُ:
 ٹکڑے ٹکڑے کرنا (وَأَحْرَثَ وَاحْتَرَثَ)
 الِذْبَانَةُ: تھکانا۔ دبا کرنا۔ صفت مقعولی
 (حَوْرَيْفَةٌ) ح حَوْرَانَتْ.
 إِحْرَثَ الارضُ: کھیتی کرنا۔ المالُ: کمائی
 کرنا۔
 الحَرْثُ: مہس۔ کھیتی۔
 السَّحَارُثُ: فانا۔ ح حَسْرَاتُ. الحَاوِرَاتُ.
 وَاِبْوَالِ الحَاوِرَاتُ: شیر کی کنیت۔
 الحَوْرَيْفَةُ: کمائی۔ ح حَوْرَانَتْ.
 الحِجْرَانَةُ: کھیتی۔ کاشٹکاری۔
 المِخْرَثُ: ح حِجْرَاتُ وَاَلِ المِخْرَثَاتُ) ح
 مَحَارِثٌ: بل۔ کریشی۔
 حَوْجُ (س) حَوْجًا. الشَّيْءُ: تنگ ہونا.....
 السَّرْجُلُ: گنہگار ہونا..... العَيْنُ: اندر دھنس
 جانے کی وجہ سے بینائی کم ہونا۔
 عَلَيْهِ الشَّيْءُ: حرام ہونا۔ الیہ: پناہ لینا.....
 العَبَارُ: تنگ جگہ میں گشتا۔
 حَوْجُ (ن) حَوْجًا. النِّيَابَةُ: غصہ سے دانت
 پینا۔
 حَوْجُهُ: تنگ کرنا۔ حَوْجُ عَلَيْهِ: کسی سے یہ
 کہنا کہ ٹوٹنگلی میں ہے۔
 أَحْرَجَهُ: گناہ میں مبتلا کرنا۔ شگلی میں ڈالنا۔
 تنگ جگہ کے لئے مجبور کرنا۔ فَلَانًا إِلَيْهِ: مضطر
 کرنا۔ أَحْرَجَ عَلَيْهِ الأَمْرُ: حرام کرنا۔
 تَحْرَجُ: گناہ سے بچنا۔
 التَّحْرَجُ: گناہ۔ بہت درختوں والی تنگ جگہ۔
 مردہ لے جانے کا تختہ۔ حرمت۔ کہا جاتا ہے
 "لا حَرْجَ عَلَیْكَ" تمہارا کوئی قصور نہیں یا
 تمہارے اوپر کوئی اعتراض نہیں۔
 وَحَدَّثَ عَنِ النُّحْرِ وَالأَحْرَجِ: سمندر کے
 متعلق بیان کرنا اور تمہارے اوپر مبالغہ وغیرہ
 کا کوئی اعتراض نہیں۔

الحَوْجُ: گناہ۔ کوڑی۔ شکار میں سے کتے کا
 حصہ۔ درندوں کے شکار کے لئے پھندا۔
 بکریوں کا ریوڑ۔ ح أَحْرَاجُ وَحَوْرَاجُ.
 السَّحْرَجُ: تنگ۔ وہ شخص جو لڑائی سے منہ نہ
 پھیرے۔ بہت درختوں والی تنگ جگہ۔ وہ
 شخص جو کسی معاملہ میں پیش قدمی کرنے سے
 خوف کھائے۔
 السَّحْرَجُ: درختوں کا جھنڈ۔ بکریوں کا
 اُونٹوں کا گلہ۔ ح حَوْجُ وَحَوْرَجَاتُ.
 الحَوْجَةُ: ڈوٹھی۔
 التَّحْوِیجُ: تنگ۔
 المِخْرَاجُ: مِنَ اللِّیالی: بہت سردرات۔
 السَّخْرَجُ: تنگ کرنے والا۔ کہا جاتا ہے
 "خَلَفَ بِالسَّخْرَجَاتِ" اس نے شگلی میں مبتلا
 کرنے والی قسمیں کھائیں۔
 حَرْجُلٌ حَرْجَلَةٌ: لمبا ہونا۔ دائیں بائیں
 دوڑنا۔
 السَّحْرَجَلَةُ: مہس۔ لنگڑا پن۔
 (..... وَالسَّحْرَجَلُ) گھوڑوں کا گلہ۔ کہا جاتا
 ہے "جَاءَ لَوَاحِرًا جَلَةً" وہ اپنے گھوڑوں پر
 آئے۔
 الحَرْجُلُ وَالحَرْجَلُ: لمبا۔
 حَرْجَمٌ. الأَبْلُ: اُونٹوں کو ایک دوسرے پر
 گرتے ہوئے واپس کرنا۔
 إِحْرَاجُ جَم. القَوْمُ أو الأَبْلُ: اکٹھا ہونا۔ عَنِ
 الأَمْرِ: ارادہ کے بعد مت جانا۔
 حَرْدٌ (س) حَرْدًا وَحَرْدًا. عَلَيْهِ: غضب
 ناک ہونا۔ صفت (حَارِدٌ وَحَرْدٌ وَحَرْدَانٌ)
 الوَقْرُ: کمان کی تاروں میں سے بعض کا
 بعض سے لمبا ہونا۔ صفت (حَرْدٌ وَحَرْدٌ)
 حَرْدَةٌ (ض) حَرْدًا: منع کرنا۔ ارادہ کرنا
 الخَشْبُ: سوراخ کرنا۔ (حَرْدٌ وَحَرْدٌ) قوم
 سے علیحدہ واکیلا ہونا۔ صفت (حَرْدٌ وَحَرْدٌ)
 ح حَوَادِدُ (حَوْرِدٌ) ح حَوْرِدَاءُ.
 حَوْرِدٌ: جموں پڑی میں پناہ لینا۔ الشَّعْرُ: ایک
 بال کا تہا اُگنا.....: ہر وکنا۔ حَرْدُ العَجَلِ:
 بٹنے سے گول ہو جانا۔ الشَّيْءُ: تیزھا کر دینا۔

أَحْرَدَةٌ: الگ کر دینا۔ اکیلا کر دینا۔ أَحْرَدٌ
 فِي المَشْيِ: تیز چلنا۔
 تَحْرَدُ. الأَدِيمُ: بالوں سے پاک صاف
 ہونا۔
 حَارَدَتْ. الناقَةُ: کم دودھ والی ہونا۔ صفت
 (حَرْدٌ مُحَارِدٌ) السَّنَةُ: کم بارش والا
 ہونا۔ حَارَدَ الرَّجُلُ: دیتے رہنے کے بعد
 بند کر دینا۔
 أَحْرَدٌ: اکیلا ہونا..... النِّجْمُ: ٹونٹا۔
 السَّحْرَدُ: مہس۔ اُونٹ کی اگلی ٹانگ کے پٹھے
 کا ڈھیلا پن۔
 العَزْوَدُ: کم دودھ والی اُونٹ۔
 السَّحْرِيدُ: دور۔ خشک کی ہوئی مچھلی۔ بہت
 میں سے تھوڑی چیز۔
 الأَحْرَدُ: اگلی ٹانگ کے پٹھے کے ڈھیلا پن
 والا ہونا۔ بخیل کنجوس۔ زرہ کے بوجھ سے
 اچھی طرح نہ چل سکنے والا۔ ح حَرْدٌ.
 المِخْرَادُ: بے بارش کا سال۔ جمع مَحَارِدُ.
 الحَوْرَدِيَّةُ: سبکی بے عقلی۔
 السَّحْرَدُونُ: زُروہ۔ یا رُغْمَتُ کے مشابہ ایک
 جانور۔
 حَرْدٌ (ن) حَرْدًا. المالُ: حفاظت کرنا
 اُکٹھا کرنا۔
 حَرْدٌ (س) حَرْدًا: پر بیزار ہونا۔
 حَرْدٌ (ک) حَرَاذَةٌ وَحَرَاذًا. المَكَانُ:
 مضبوط ہونا۔
 حَرْدٌ. الشَّيْءُ: حفاظت میں مقابلہ کرنا۔
 (..... وَالأَحْرَدُ) المَكَانُ الرَّجُلُ: جائے پناہ
 ہونا أَحْرَدُ الشَّيْءُ: جمع کرنا۔ حفاظت کرنا۔
 ذَخِيرَةٌ کرنا۔
 تَحْرَدُ وَاحْتَرَدُ. منہ: بچنا۔
 اسْتَحْرَدُ: محفوظ جگہ میں آ جانا۔
 السَّحْرَدُ: مضبوط جگہ۔ کہا جاتا ہے "حَسْرَدُ
 حَرِيدٌ وَحَارِدٌ" بہت محفوظ مقام۔ حصہ۔ کہا
 جاتا ہے "أَخَذَ حَرْدَهُ" اس نے اپنا حصہ لے
 لیا۔ ہر وہ چیز جس میں اشیاء کی حفاظت ہو
 سکے جیسے صندوق وغیرہ۔ ہر وہ چیز جو ضائع

اور تلف ہونے سے بچائے۔ فی اصطلاح المعودین: تعویذ۔ ح: آخرا۔

الحروز: مہس۔ بچوں کا ایک قسم کا کھیل جو اخروت سے کھلتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو محفوظ کی گئی ہو۔ ح: آخرا۔

الحورینس: جمع کی ہوئی چیز۔ کہا جاتا ہے "لا حورینس من بیع" یعنی اگر اس نے خواہش کے مطابق قیمت دے دی تو میں بیچ دوں گا۔ الحورینسۃ: من الابل: اونٹ جن کو خوبی کی وجہ سے فروخت نہ کیا جائے۔ ح: حوزنر۔

حورسۃ (نض) حورسا: حفاظت کرنا۔ صفت (حارس) ح: حوراس و حورسۃ و حرس و احراس۔ حارس السماء و حارس السماک: دو ستاروں کے نام۔ حرس (ض) حورسا و احرس۔ الشی: رات میں چوری کرنا۔

حورس (س) حورسا: زمانہ دراز تک زندہ رہنا۔

أحرس: بالمکان: حفاظت کے لئے قیام کرنا۔

تَحْرُس و اَحْرُس: منہ: محفوظ رہنا۔ ح: کر رہنا۔

الحورس: مہس۔ زمانہ۔ کہا جاتا ہے "فضی غلیبہ حورس" اس پر ایک زمانہ گزر گیا۔ ح: احراس۔

الحورس: حفاظت کرنے والے۔ و حورس الملک: شاہی محافظ۔ فوج۔ واحد (حورسی)۔

الحورسان: رات دن۔ الحوراسة: حفاظت۔

الحورینسۃ: بکریوں کا باڑہ۔ رات میں چوری کی ہوئی بکری۔ چوری۔ ح: حورانس۔

الاحرس: پرانا۔ جس پر ایک زمانہ گزر گیا ہو۔

الحورسان: نڈی کی ایک قسم۔

الحورسم: گوشہ۔

الحورسم: زہر و موت۔

الحوراسین: ایک قسم کی چھلی۔

الحوراسین: ڈبلے اونٹ (اس کا واحد نہیں) قحط والے سال۔

حورس (ض) حورسا و تحورسا: الضب: شکار کرنا۔ البعیر: تیز چلنے کے لئے رسی سے پیچھ کور کرنا۔ الرجل: خراش لگانا۔

حورس (س) حورسا: تخت ہونا۔ صفت (أحرس) الرجل: دھکا دینا۔

حورس: بین القوم و بین الکلاب و السباع: ایک کو دوسرے کے خلاف برا بیچتے کرنا۔

تَحْرُس: بہ: درپے ہونا۔ تَحْرُس الضب و بالضب: شکار کرنا۔

أَحْرُس: الشی: جمع کرنا۔ القوم: اکٹھا ہونا۔ الرجل: دھکا دینا۔ اعیالہ: کماٹی کرنا۔ الضب: شکار کرنا۔

الحورس: مہس۔ اثر۔ دھکا فریب۔ جماعت۔ ح: حوراش۔

الحورس: کھر در۔ وہ شخص جس کو تیندے آئے۔

الحورسۃ و الحورس: کھر در اپن۔

الحوریش: کنسلانی۔ ح: حوروش: کن کھجور۔ الحوریش: ایک دریائی جانور۔ گینڈا ایک قسم کا چنی دار سانپ۔

الحوریشۃ: ایک قسم کی نباتات۔ کہا جاتا ہے "أخرجت له حوریشی" میں نے اس کے لئے اپنا سب کچھ جو میرے قبضے میں تھا نکال دیا۔

الحوراش: من الحیات: پرانا سیاہ سانپ۔ الاحورس: کھر در کی گوہ۔ دینار احورس: نئے ہونے کی وجہ سے کھر در اور نیا۔ ح: حورس۔

الحورشف: بھجلی کا سستا۔ چھوٹے پرندے۔ نڈی کہ ابھی پر نہ نکلے ہوں۔ زرہ کی کڑیاں۔ کزور بوڑھے۔ کہا جاتا ہے "لیس قسہ غیر حورشف و رجال" وہاں پر سوائے کزور بوڑھے لوگوں کے کوئی نہیں۔ پیادوں کی جماعت۔ سمندر کے کنارے کے پتھر۔

ح: حوراشف۔

الحورشف: تخت زمین۔

حورص (ن) حورصا: الجلد: چمیلانا۔ القطار الثوب: دھونے یا کونے میں پھاڑنا۔

حورص (ض) و حورص (س) حورصا و احرص۔ علی الشی: لالچ کرنا۔ صفت (حریص) ح: حورصاء و حوراص و حوراص: مؤنث حریصۃ۔ ح: حوراص و حورائص۔

حورص: المرعی: چرے کے بالکل صاف کیا جانا۔ حورصۃ: علی الشی: لالچ دلانا۔

تَحْرُص: حکتف لالچ کرنا۔ وقت کا انتظار کرنا اور اسی سے ہے ہویت حورص غداہم و عشائہم: وہ ان لوگوں کے صبح شام کے کھانے کے وقت کا انتظار کرتا ہے۔

الحورص: مہس۔ لالچ۔

الحورصۃ و الحارصۃ و الحورینسۃ: زخم جو کچھ کھال کو پھاڑ دے۔ الحارصۃ و الحورینسۃ: تخت بارش جو زمین کو صاف کر دے۔

حورص (نض) حورصا و حورص (س) حورصا و حورص (ک) حوراصۃ: مرض فاسد میں مبتلا ہو کر ڈبلا ہونا۔ صفت (حورص و حورص و حارص و حارصۃ) کہا جاتا ہے "ناقۃ حورص" دہلی اونٹنی۔

حورص (ض) حورصا: نفسہ: خراب کرنا۔ بگاڑنا۔

حورصۃ: علی الامر: برا بیچتے کرنا۔ فلانا: کسی کے بدن یا عقل کی خرابی کو دور کرنا۔ الشی: خراب کرنا۔ بگاڑنا۔

أَحْرُصۃ: گرانا۔ العزن و المرض: بدن کو ٹھنڈا کرنا۔ علی الشی: برا بیچتے کرنا۔ الرجل: ناخلف اولاد کا باپ ہونا۔ حارص: علی العمل: مداومت کرنا۔ فلانا: تیز کی چھڑ سے ایک دوسرے کو مارنا۔ تحارصوا: علی العمل: ایک دوسرے کو

برا بھینٹ کرنا۔

السحرَضُ: بھس۔ بدن یا مذہب یا عقل کی خرابی..... حَضْرَضُ الشَّوْبِ: کپڑے کا کنارہ۔

السحرَضُ: قریب بہلاکت۔ بے فیض آدمی۔ وہ شخص جس کو غم یا عشق گھلا دے۔ گرا ہوا جو اٹھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ بُرَى كَفْتَلُو۔ نَجَ أَحْرَاضٍ وَحَرَضَانَ وَحِرْضَةَ۔

السحرَضُ وَالْحَرَضُ: اشانان جس سے کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے تھے۔

الْحِرْضَةُ: گھسیا قسم کا آدمی جس کو کوئی مذند لگائے۔ نَجَ حِرْضٍ۔

حَرْفٌ (ش) حَرْفًا: الشَّيْءُ عَنِ وَجْهِ: پھیرنا جھکانا..... عَنِ الشَّيْءِ: مائل ہونا۔

لِعِيَالِهِ: ادھر ادھر سے کمائی کرنا۔

حَرْفٌ: فِي مَالِهِ حَرْفَةٌ: کچھ ضائع ہو جانا۔ حَرْفٌ: الْقَوْلُ: قول کو اس کے موقع سے پھیر دینا..... الْقَلَمُ: تیز ہا قلم لگانا۔

الشَّيْءُ: كُنْأَرَهُ بِنَانَا: جھکانا۔

حَارِضَةٌ: مَعَامَلَةٌ كَرْمًا أَوْ رَاسِيًّا سَعِيًّا فَفَقَدْتُ عِلْمَهُمَا فِي الْعَزْوِ كَيْفَ نُحَارِفُ" انہوں نے یقیناً جان لیا کہ ہم جنگ میں ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں..... الرَّجُلُ: شَرٌّ يَأْخِرُكَ بَدَلَهُ دِينًا..... الْجَرْحُ: سَلْمَانِيًّا اِنْدَاذَهُ كَرْمًا۔

أَحْرَفٌ: فَتْقِيرِي كَعَبْدٍ مُسْتَعْفَنِي بُونَا۔ اہل و عیال کے لئے مشقت برداشت کرنا۔

السَّنَاقَةُ: الْأَعْرُكُ كَرْمًا..... الرَّجُلُ: خَيْرٌ وَشَرٌّ كَبَدَلِهِ دِينًا۔

تَحْرَفُ عَنْهُ وَانْحَرَفَ وَاحْرُورَفَ: ایک جانب کو جھکنے۔ تَحْرَفُ لِعِيَالِهِ: ہر پیشہ سے کمائی کرنا۔

اِحْتَسَرَفَ: پشیمانتیار کرنا۔ تلاش کرنا۔ حیلہ کرنا..... لَاهِلُهُ: کمائی کرنا۔

السحرَضُ نَجَ حِرْضٍ: كُنْأَرَهُ دَهَارًا۔ جانب "حَرْفُ الْجَبَلِ" پہاڑ کا تیز سرا۔ کہا جاتا ہے "فِلَانٌ عَلِيٌّ حَرْفٌ مِنْ أَمْرِهِ" فلاں شخص

معاملہ کے ایسے موقع پر ہے کہ اگر پسند خاطر نہ ہو تو ہٹ جائے۔

الْحَرْفُ: يَأْتِي بِنَبِيٍّ كَيْفَ۔ حَرْفُ السَّفِينَةِ أَوْ النَّهْرِ: كَسْتِي يَأْذُرِيَا كَانْأَرَهُ۔ السحرَضُ: نَجَ حُرُوفٍ وَأَحْرَفُ: حَرْوْفٌ تَجِي مِيں سَعِيًّا

اور اس کا نام "حروف المبسئي" ہے..... فِي السحرَضِ: وَهُوَ كَلِمَةٌ جَوْبِغَيْرِ دَوْرَمَرِي سَعِيًّا طَلَعُ بُوْنَعِي مَعْنَى نَدَعِي أَوْ رَاسِيًّا كَانْأَمُ "حَرْفُ السمعنى" ہے۔ کلمہ جیسے یہ حرف قاموس میں نہیں یعنی یہ کلمہ نہیں۔

الْحَرْفُ: رَاسِيًّا۔ وَاحِدٌ (حَرْفُهُ) الْخَرْفُ: مَجْرُومٌ۔ بَدِيْحِيًّا۔

الْحَرْفَةُ: پيشہ۔

حَرْفِيًّا: الرَّجُلُ: بِهَمِ پيشہ۔ نَجَ حَرْفَاءَ۔ الْخَرْفَةُ: مَجْرُومِيًّا كَمِ نَصِيْبِيًّا۔ بَدِيْحِيًّا۔

الْحَرْفَةُ: چر پر اہٹ۔

السحرَضُ: چر پر اہٹ والی چیز۔ کہا جاتا ہے "هَذَا يَصِلُ حَرْفِيًّا" یہ تیز پیاڑ ہے۔

الْمُحْرَفُ: پيشہ ور۔

الْمُحْرَفُ وَالْمُحْرَفَاتُ: زَحْمٌ كِي لِهَرَانِي مَعْلُومٌ كَرْمَةً كِي سَلْمَانِيًّا۔

السحرَضُ: وَهُوَ فَخْصٌ جَسْمًا كَامَالٌ ضَاعِعٌ بُوْغِيًّا بُو۔

الْمُحْرَافُ: مَجْرُومٌ۔ كَمِ نَصِيْبِيًّا۔ حَرْفُهُ (ن) حَرْفًا: بِالنَّارِ: جَلَانَا۔

بِالسَّمِيْدِ: رَاسِيًّا سَعِيًّا رَاسِيًّا..... الشَّيْءُ: بَعْضٌ كُو بَعْضٌ سَعِيًّا رَاسِيًّا۔

حَرْقٌ (ن ش) حَرْقًا وَحَرْقِيًّا وَحُرُوقًا: نَسَابَةٌ عَلَيْهِ: دَانَتْ پيٹنا۔ کہا جاتا ہے "فِلَانٌ يَحْرُقُ وَيُحْرَقُ عَلَيَّ الْأَرْمُ" یعنی وہ میرے اوپر دانت پیتا ہے۔ شدت غضب کے لئے بطور کنایہ کے بولتے ہیں۔

حَرْقٌ (س) حَرْقًا: شَعْوَةٌ: كَثُ جَانَانَا يَأْغُرُ جَانَا۔ صَفْتٌ (حَرْقِيًّا) الشَّعْوُ.

حَرْقٌ وَحَرْقٌ: بِيْرِي كِي بُوْنِي رَگ يَأْشَعِي وَاللَّاهِلَةُ: بُوْنَا۔

حَرْقَةٌ وَاحْرَقَةٌ: بِالنَّارِ: جَلَانَا۔

حَرْقٌ الْمَوْعِي الْأَبْلُ: پيٹاس لگانا۔ تَحْرَقٌ وَاحْتَرَقَ: جَلْنَا۔

حَارِقٌ مُحَارِقَةٌ: الْمَرْأَةُ: پھلو پر لانا کر جماع کرنا۔

السحرَضُ وَالْحَرْقُ: مَمْسٌ۔ جَلْمٌ۔ السحرَضُ: دَهْوَبِي كَعِيْئِي سَعِيًّا كَپڑے كِي چھن۔

السحرَضُ: كَپڑے مِيں جَلْمے كِي وَجْه سَعِيًّا سَوَارِخٌ۔

السحرَضُ: سَخْتٌ چمک والا بادل۔ بال جو دروازہ نہ ہوں۔

السحرَضَةُ وَالْحَرْقَةُ: كَرْمِيًّا۔ كَمَا جَانَا سَعِيًّا "فِي حَرْوْفِهِ حَرْفَةٌ" اس کے جوف کے اندر کرمی ہے۔

السحرَضَةُ وَالْحَارِزَةُ وَالْحَرْفَةُ: شَشِيرٌ بَرْدًا۔

السحرَضُ وَالْحَرِاقُ: بَرِيْجِي كُو بَا كَرْمَةً وَاللَّاهِلَةُ: بَهْتٌ كَهَارِي پَانِي۔ بہت تیز دورے والا گھوڑا۔

السحرَضُ: آگ كِي بھڑک۔ آگ کا شعلہ۔ جلا ہوا۔ سردی یا گرمی سے جلی ہوئی ناسات۔ نَجَ حَرْوْفِيًّا۔

الْحَرْفَةُ: عَامَّةٌ النَّاسِ كَعَزْوِي كِي كَبْدٌ پَرَا آگ بھڑک اٹھنا حرارت۔

السحرَضُ: بہت کھاری پانی۔

حَرِاقِيًّا: عَوَامٌ كَعَزْوِي كِي لَمَّةٌ لَعَامًا۔

السحرَضَةُ: كَشْتِي جَسْمِيًّا سَعِيًّا دَشْمَنُوں پَرَا آگ بھینکی جاتے۔ نَجَ حَرْوْفَاتُ: عَوَامٌ كَعِيْئِي كِي نَزْدِي كَحَرْوْفَةٍ: اس کو کہتے ہیں جو کھال پر رکھ دیا جائے تو آبدار اٹھ آئے۔

السحرَضُ وَالْحَرْوُقُ: چھماق کا سونڈ۔

السحرَضَةُ: كَرْمِيًّا (..... وَالْحَرْوُقَةُ) ایک قسم کی خوراک جس کو پانی جوش دے کر آٹا ڈال کر تیار کرتے ہیں۔

السحرَضُ: مَعْرُوقِيًّا۔

السحرَضَةُ: دِيْجِي جَسْمِيًّا كُو اظہار عبودیت کے لئے جلا دیا کرتے تھے۔ نَجَ مَحْرَقَاتُ

السحرَضُ: بِيْرِي كِي رَگ يَأْشَعِي۔

عمامة (خرفانية) خاکستری رنگ کا عمامہ۔
 الجورقة: زبان کی جڑ۔ ج خرقاقد۔
 الخرقفة: نرخرہ کی گرہ۔
 خرقص: فی المشی: قریب قریب قدم
 رکنا۔ الکلام: جلدی جلدی بولنا۔
 الخرقوص: پھوکی مانند ایک کیزا۔
 الجرقوص: بچنے ہوئے گوشت کا ٹکڑا۔
 الخرقفة: سرین کی بڈی کا سرا۔ ج خرقاقد
 و خرقیف۔
 الخرقوف: بڑا جانور۔
 خرك (ن) خركا: حق ادا کرنے سے
 باز رہنا۔ خسركة: دونوں کندھوں کے
 درمیان میں مارنا۔ خرك خارك: دونوں
 کندھوں کے درمیان کاٹ دینا۔
 بالسيف: تلوار سے مارنا۔
 خرك (س) خركا: کمر یا دونوں کندھوں
 کے درمیان کمزوری والا ہونا۔ نامرد ہونا۔
 صفت (خونیک) مؤنث خوریکہ۔
 خرك (ک) خركا و خركة: ہلنا۔
 خركة: ہلان۔ کہا جاتا ہے "خرك يتي
 الامر" مجھے معاملہ نے منتظر کر دیا۔
 الخراك: فادوں کندھوں کے درمیان
 کا بالائی حصہ۔
 الخركة النومية: (فلکیات) آسمانی گیند
 کی گردش کا تصور جہان کے محور کے اردگرد
 جس کا سبب زمین کی گردش اپنے محور کے
 گرد۔
 الخراك: حرکت۔
 الخرك: سبک و تیز خاطر رفتار۔ کہا
 جاتا ہے "غلام خرك" سبک و تیز خاطر
 لڑکا۔
 المخراك: حرکت دینے والا آلہ۔
 کرلیٹی۔
 المخرك: ج منحركات: مختلف
 جہازوں کاڑیوں کے انجن۔
 المخرك: گردن اور سر میں جوڑ کی جگہ۔
 خركت خركة: الریح الاشجار: ہلانا۔

الخركة: سرین کا وہ حصہ جو بیٹھے میں زمین
 سے لگے۔ ج خركك و خركك۔
 الخركوك: کندھوں کے درمیان کا حصہ۔
 خركل: الصائد: شکار سے محروم واپس
 آنا۔
 الخركة: ایک قسم کی رفتار۔ پیادے۔
 خركه (ض) و خركه (س)
 جركا و خركما و جركما و جركما
 و خركمة الشئ: منع کرنا۔ روکنا۔ محروم
 کرنا۔ صفت مفعولی (محروم)
 خرم (س) خرم و خراما و خرم (ک)
 خرم و خرم و خرم و خرم و خراما۔
 عليه الامر: حرام ہونا۔
 خرم (س) خرم و خراما، فی القمار:
 جوئے میں ہارنا۔
 خرم الشئ: حرام کرنا۔ خرام الصلوة:
 نماز کا تحریم یا نہ ہونا۔ و آخرم) ماہ حرام
 میں داخل ہونا۔ خرمه و اخرمه فی القمار:
 غالب ہونا۔ و آخرم: حرم میں داخل ہونا۔
 آخرم الشئ: حرام کرنا۔ آخرم عن الشئ:
 رکنا یا زہنا۔
 تخرم: منہ بخرمہ: کسی کے ذمہ میں آ کر
 محفوظ ہونا۔ تخرم به: ایک ساتھ زندگی بسر
 کرنے کی وجہ سے دونوں کے درمیان
 حرمت قائم ہو جانا۔ کہا جاتا ہے "تخرمت
 بطعامك و بمجالسك" یعنی ایک ساتھ
 کھانا کھانے اور بیٹھے اٹھنے کی وجہ سے مجھ
 سے جس چیز کا لینا تمہارے لئے جائز تھا وہ
 ممنوع ہو گیا۔
 اخترمه: ذرنا۔ حرمت و عزت کی رعایت
 کرنا۔ احترام الشئ: محروم ہونا۔ "لا تخرم
 فخرم" میں دونوں معنی جمع ہو گئے ہیں۔
 یعنی ذرمت و زخرم سے محروم رہو گے۔
 استخرم: الشئ: حرام سمجھنا۔
 الخرم: محرم۔ حرام ایسا واجب جس کا ترک
 کرنا جائز نہ ہو۔ ج خرم: حرام کا زمانہ۔
 الخرم: محرم۔ حج کا حرام۔

الخرم: محرم۔ ہر وہ چیز جس کی حفاظت کی
 جائے اور جس کی طرف سے ممانعت کی
 جائے۔ مقدس ج احرام۔ الخرم:
 الاقصی: بیت المقدس۔
 الخرمان: مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ۔
 الخرمان: محروم۔
 الخرمه و الخرمه الخرمه: ذمہ دہیت ہر وہ
 چیز جس کی ادائیگی ضروری ہو اور جس کے
 اندر کوتاہی حرام ہو۔ حصہ۔ قابل حفاظت چیز
 جس کی پردہ دری حرام ہو۔ خرمه الرجل:
 بیوی۔ ج خرم و خرمات و خرمات:
 الخرمه: حفاظت۔
 الخرم: محرم۔ ہر وہ چیز جو حرام ہونے کی
 وجہ سے چھپوئی نہ جائے۔ محرم کا کپڑا۔ خرم
 الرجل: جس کی طرف سے ممانعت اور اس
 کی حفاظت کی جائے اور اسی وجہ سے بیوی کو
 حرم کہتے ہیں۔ قصر شامی کے اردگرد وسیع
 جگہ۔ ہر وہ جگہ جس کی حفاظت واجب ہو۔
 ج خرم و آخرم و آخرم:
 الخرم: ایک شخص کی بیویاں۔ الا شہر
 الخرم اربعة: ذوالقعدہ و ذوالحجہ و محرم
 و رجب کہ ان مہینوں میں عرب قتل و قتال
 حرام سمجھتے تھے۔
 الخرمه: محرم۔ ہر مرغوب چیز سے جو
 فوت ہو جائے۔
 الخرم: محرم۔ ضد حلال۔ ج خرم کہا جاتا
 ہے "حرام اللہ لا اقل هذا" قسم کے لئے
 جیسے "یسین اللہ لا اقل" حرام باندھنے
 والا۔ کہا جاتا ہے "رجل حرام و قوم
 احرام" حرام باندھنے والا مرد و احرام
 باندھنے والی قوم۔ دونوں صورتوں میں واحد
 ہی مستعمل ہے اس وجہ سے کہ یہ مصدر ہے۔
 الشهر الخرم: ماہ محرم۔ البلد الحرام: مکہ
 مکرمہ۔ المسجد الحرام: مسجد کعبہ۔
 الخرمی: حرام کام کرنے والا۔
 مخرم: قمری سال کا پہلا مہینہ۔ المخرم:
 جس کے لئے ذمہ ہو۔ جلد محرم: بے

کمانی ہوئی کھال سُوطِ مَحْرُوم: کوڑا جو زرم نہ کیا گیا ہو۔ اُغْرَابِی مَحْرُوم: اُجْد و بیہوشی۔
 المَحْرُوم: حرام۔ مَحْرَامِ: مَحْرَامِ اللَّیْلِ: رات کے خطرات۔
 المَحْرُوم: احرام باندھنے والا۔ صلح کرنے والا۔ ہر وہ شخص جو تمہاری حفاظت میں ہو۔
 کہا جاتا ہے "انہ لمَحْرُوم عنک" یعنی اس کی تکلیف تمہارے اوپر حرام ہے۔
 المَحْرُوم: خیر سے روکا ہوا۔ وہ شخص جس کے مال میں زیادتی نہ ہو۔ وہ بد نصیب جو کمانی نہ کر سکتا ہو۔
 المَحْرُومَة و المَحْرُومَة: ہر وہ چیز جس کی پر وہ وری جائز نہ ہو۔ مَحْرَامِ: مَحْرَامِ: خرم مذ۔ فی الامر: اصرار کرنا۔
 الحَرْمِید و الحَرْمِید: رنگ و بو بدلا ہوا اور بقول بعض سیاہ کچھڑ۔
 حَرْمِیَّة: لعنت کرنا۔
 الحَرْمِیَّة: کالا دانہ۔
 حَرْمِیَّة و حَرْمِیَّة (ان وک) حَرْمِیَّة و حَرْمِیَّة و حَرْمِیَّة و حَرْمِیَّة: البَغْل: اڑ جاتا۔ صفت مذکر و مؤنث (حَرْمِیَّة) ج حَرْمِیَّة۔ و حَرْمِیَّة فی البیع: ٹھیک قیمت پر بیچنا۔ حَرْمِیَّة (ک) حَرْمِیَّة۔
 بالمکان: جگہ سے نہ ہٹنا۔ العَسَلُ فی الخَلِیْمَة: شہد کا چھتہ میں چپکنے کی وجہ سے نکالنے میں دشواری ہونا۔ و حَرْمِیَّة القَطَن: دھنا۔
 المَحْرُوم: دُحْنِے کی کمان۔
 السَّحْرَا: گھر کا گھن۔ کہا جاتا ہے "نَزَلَتْ بِحَرْمَا" میں اس کے گھن میں اُتار۔ آواز۔
 گرہ۔ ہرن کے چھپنے کی جگہ۔ مَحْرَامِ: مَحْرَامِ: الحَرْمَا: لائق۔ کہا جاتا ہے "بِالسَّحْرَا اَنْ یكون ذاک"۔
 الحَرْمَاوَة: رائی وغیرہ کی تیزی۔
 الحَرْمَاوَة: گھلے یا سینے میں یا سر میں غصہ یا درد کی وجہ سے جلن۔ بدبو کے ساتھ چہ پر ابٹ۔
 حَرْمِی (ض) حَرْمِیَا: الشَّیْءُ: گھٹانا۔ کم ہونا۔

اَحْرَى: الشَّیْءُ: گھٹانا۔ کم کرنا۔
 تَحْرَى: قابل استعمال کو طلب کرنا۔ دو چیزوں میں سے اولیٰ کو طلب کرنا۔ الامْرُ: قصد کرنا اور فضیلت دینا۔ بِالْمَمْکَانَ: ٹھہرنا۔
 المَحْرُوی و المَحْرُوة: لائق سزاوار۔ کہا جاتا ہے "هَذَا الامر مَحْرُوی او مَحْرُوة لذلک او بذالک" یعنی یہ کام اس کے لائق ہے۔
 السَّحْرِیَّة: حَرْمِیَّة و حَرْمِیَّة: مؤنث حَرْمِیَّة: مَحْرِیَّات و حَرْمِیَّات (السَّحْرِیَّة) حَرْمِیَّة: حَرْمِیَّة (السَّحْرِیَّة) لائق سزاوار۔ مناسب۔
 کہا جاتا ہے "انہ لَحَرْمِیَّ او حَرْمِیَّ او حَرْمِیَّ بِکَذَا بَاَنْ یَفْعَلَ کَذَا" یعنی وہ فلاں چیز کے لائق ہے اور فلاں کام کرنے کے لائق ہے۔ (اخیر کلمہ کے تشبیہ جمع نہیں آتے)
 السَّحْرِیَّة: بہت زہریلا سانپ جو پرانے ہونے کی وجہ سے چھوٹا ہو گیا ہو۔
 اَحْرِبَة: فعل تعجب ہے بمعنی کس قدر لائق۔ اس کی ترکیب اَحْرِبْ امر بمعنی تعجب اس کے آخر میں ہی حرف علت گرا دیا گیا ہے۔ یہ: ہا حرف زائد ہے اور ہا حالت رفع میں فاعل احر: کا۔
 الاَحْرِی: زیادہ لائق زیادہ مناسب زیادہ بہتر۔
 رَجَالُ السَّحْرِی: پولیس کی تفتیشی پارٹی جو کہ جرائم اور مجرمین کے متعلق تفتیش کرتے ہیں۔
 حَرْمَة (ن) حَرْمَة و اَحْرَمَة: کاشا۔ حَرْمَة العَوَة: شُکاف و النَا۔
 تَحْرَم: شُکاف پڑنا۔
 حَرْمَة و اَحْرَم: علی کرم فلاں: بڑھ جانا۔
 حَرْمَة: آستانہ: کناروں کو تیز کرنا۔
 حَرْمَة مَحْرَمَة و حَرْمَة: پوری کوشش کرنا۔ اچھی طرح سے تلاش و جستجو کرنا۔
 السَّحْرُ: مضم۔ وقت۔ سخت گفتگو والا۔ کَلْمِی وغیرہ میں شُکاف۔ واحد (حَرْمَة)
 الحَرْمَة: در و دل۔ دقت۔ کہا جاتا ہے "اِنَّی

حَرْمَة اَتِیْتِی فُضِیْتُ خَاجِتْک" میں نے اس وقت تیری حاجت پوری کی جب تم میرے پاس آئے۔ دشوار حالت۔
 الحَرْمَة و الحَرْمَة: سر کی بھوسی۔ عوام حَرْمَة کو داد کے معنی میں استعمال کرتے ہیں مگر فصیح لفظ اس کے لئے قوباء ہے۔
 السَّحْرَة: غصہ وغیرہ کی وجہ سے دل کا درد گفتگو میں براہ روی۔ مَحْرَمَات۔
 السَّحْرَة و السَّحْرَة: ہر وہ چیز جو دل یا سینہ میں باعث تکلیف ہو۔
 حَرْمَة: القلب: دل کو الم پہنچانے والے امور۔ واحد (حَرْمَة)
 السَّحْرَة: سخت عمل کرنے والا ج حَرْمَة و حَرْمَة و حَرْمَة: بھوسا جو کہ چھلنی کے بعد گرتا ہے۔ ایک بیماری کا نام۔
 السَّحْرَة: سخت عمل کرنے والا۔ تیز ہانکنے والا۔
 السَّحْرَة: سفید یا سبز پودا جو کہ پتھروں یا باغوں میں پیدا ہوتا ہے۔
 السَّحْرَة: کاشے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "قطع فاصاب السَّحْرَة" اس نے قطع کیا اور درست قطع کیا۔
 المَحْرَة: کاشے کا آلہ۔ مَحْرَة: سخت گفتگو والا۔
 الحَرْمَة: سختی۔
 الحَرْمَة: نیشہ۔
 الغزات: سرخ یا زرد پھول کا نام۔
 حَرْمَة (ف) حَرْمَة: الابل: بیع کرنا۔ اکٹھا کرنا۔ السَّرَابُ الشَّخْص: نما یاں کرنا۔
 المَرَاة: جماع کرنا۔
 اَحْرَمَة: الطائِر: پروں کو سمیت کرائیوں سے علیحدہ ہونا۔ الابل: اکٹھا ہونا۔
 حَرْمَة (ن) حَرْمَة: الویل العَم: بیچینا لاحق ہونا۔ سخت ہونا۔ حَرْمَة القُرآن: ایک حصہ مقرر کر کے پڑھنا۔
 حَرْمَة: القوم: پارٹی پارٹی کر کے جمع کرنا۔

تختیاں۔

الحَزْوَانَةُ: اہل و عیال جن کی وجہ سے آدمی فکر مند رہتا ہے۔

العزیزین: بگلا۔

الحَزْوَانَةُ: زمین کی تختی۔

حَزَا (ن) حَزْوًا و حَزَى (ض) حَزِيًا و تَحْزُونًا الشَّيْءُ: اندازہ کرنا۔ تخمینہ کرنا۔ الطیور: شگون معلوم کرنے کے لئے اڑاتا۔

حَزَا (ن) و حَزَى: السراب الشَّيْءُ: نمایاں کر دینا۔

أَحْزَى أَحْزَاءَ الشَّيْءِ: بلند و نمایاں ہونا۔ بالشَّيْءِ: جاننا۔

الْحَازِي: فا۔ وہ شخص جو قبیلہ وغیرہ دیکھ کر پیشین گوئی کرے اور اسی سے ہے "عَلَسِي الْحَازِي هَبَطْتُ": یعنی میں دانا اور واقف کار کے پاس پہنچا۔

الْحَزِي وَالْحَزَاءُ: واحد حَزَاءٌ قَوْ و حَزَاهُ: اجوائن کی طرح ہونا۔

الْحَزَاءُ: نجومی و ستارہ شناس۔

حَسَهُ (ن) حَسًا: قتل کرنا۔ جڑ سے اکھیرنا۔ حَسَّ الدَّابَّةُ: کھریا کرنا البورد الزرع: جلانا۔

اللحم: چنگاری پر ڈالنا النار: پختہ ہونے کے لئے کباب وغیرہ پر آگ ڈالنا۔

حَسَّ (ض) حَسًا و أَحَسَّ: الشَّيْءُ و بالشَّيْءِ: معلوم کرنا۔ کہا جاتا ہے "حَسَّ و أَحَسَّ منه خبراً": اس نے اس سے خبر معلوم کی۔

حَسَّ (س ض) حَسًا و حَسًا: بالخبر: یقین کرنا لفلان: نرم دل ہونا۔

حَسَهُ: معلوم کرنا۔

تَحَسَّنَ: سَنًا و كَيْفًا الخبر: معلوم کرنے کی کوشش کرنا۔ الشَّيْءِ: جو اس سے پہچانا۔

تَحَسَّنَ منه: حقیقت حال معلوم کرنا۔

أَحَسَّتْ: أَسْنَانُهُ: اکھر جانا۔ ٹوٹ جانا۔

أَحَسَّ الشَّيْءُ: چھوٹا۔ جڑ سے اکھیرنا۔

الْحَسَّ: مَضَّ - حَرَكْتُ - آهْتًا و آواز - کہا

جاتا ہے "فَمَا سَمِعْتُ لَهُ حَسًا": میں نے اس کی آہستہ آواز نہیں سنی۔ آہٹ۔ بچہ کی پیدائش کے بعد کادرو۔ حَسَّ الحُمَى: بخار کے شروع ہونے کا احساس۔

الحَسَّ: مَضَّ - حِيلِدَ - شَوَّرَ -

الحَسَّةُ و الحِجَّةُ: حالت - کہا جاتا ہے "هَوَسَى حِسَّةً سَوْءًا": وہ بڑی حالت میں ہے۔

الحِجَّاسَةُ: الحِجَّاسُ: کامؤنٹ - معلوم کرنے کی قوت - حِجَّاسُ الحَوَاسِ الخَمْسِ: معلوم کرنے کی پانچ قوتیں - (سَنًا و كَيْفًا) سوگھنا - چکھنا "حِجَّاسُ الارضِ حَمْسٌ": زمین کے لئے پانچ آفتیں -

مردی اولے ہوا نڈی - مویشی - کہا جاتا ہے "مَسَّرْتُ بِالْقَوْمِ حَوَاسًا": لوگوں پر سخت سال گزرے۔

الحِجَّاسُ: آہستہ آواز - حرکت - مقتول - حَسَّاسٌ الحُمَى: بخار کے شروع ہونے کا احساس۔

الحِجَّاسُ: وہ چیز جس کا ادراک قوت حاسہ سے ہو اور اس کا ضد عقلمی ہے۔

الحِجَّاسُ: ایک قسم کی چھوٹی چھیلی جو خشک کی جاتی ہے۔ پتھر کے چھوٹے ٹکڑے - واحد (حِجَّاسَةٌ) بدبختی - بد خلقی۔

حَسَّاسٌ: گاڑی کی ریس۔

الحِجَّاسُ: سخت قوط کا سال۔

الْمُحَسَّنَةُ العَجَبِيَّةُ: ان لوگوں کا نظریہ جن کا عقیدہ ہے کہ تمام عقلی ملکيات احساس کے ساتھ وجود پذیر ہوتے ہیں۔

حَسَّاسَاتُ العِجَا: کنایہ ہے شرمندگی کی چیزوں کی وجہ سے انقباض کے احساس سے۔

المُحَسَّنُوسُ: حس ظاہری سے معلوم کیا ہوا۔ بد بخت - أَرْضٌ مُحَسَّنُوسَةٌ: ٹڈی یا اولے سے تباہ شدہ زمین۔

المِحْسَةُ: کھریا۔

الحِجَّاسُوسُ: جاسوس۔

حَسْبَةُ (ن) حَسْبًا و حَسْبًا و حَسْبَانًا و حَسْبَانًا و حَسْبَةً و حَسْبَةً: شمار کرنا۔

حَسْبَةُ (س ح) حَسْبًا و مَحْسَبَةً و مَحْسَبَةً: گمان کرنا۔

حَسْب (ك) حَسْبًا و حَسَابَةً: شریف الاصل ہونا۔ صفت (حَسْبُ) ج حَسْبَاءُ۔

حَسْبٌ: تکید دینا المِثْ: کفنا کروٹن کرنا یا پتھروں میں دفن کرنا۔

(و أَحْسَبُهُ) کسی کو اتنا کھلانا یا دینا کہ وہ بول اٹھے کہ بس - کہا جاتا ہے "اعطى فَأَحْسَبُ" یعنی اس نے دیا اور بہت دیا۔

حَاسِبُهُ مُحَاسِبَةٌ و حَسَابًا: حسابات کی جانچ کرنا۔

تَحَسَّبَ: قناعت کرنا۔ بھگے لگانا العَجْرُ: دریافت کرنا ہ: پہچانا۔ قصد کرنا۔

تَحَاسَبًا: ایک دوسرے کے حساب کی جانچ کرنا۔

إِحْتَسَبَ: الامر: گمان کرنا۔ شمار کرنا ما عند فلان: آزمائش کرنا۔ اِحْتَسَبَ عليه الامر: امر مکرر سے منع کرنا۔ بہ: قناعت کرنا۔

عَبَّهُ: رک جانا۔ باز رہنا۔ اِحْتَسَبَ و لَدَالَهُ: بڑی عمر کے بچہ کو کھو دینا (اور اگر چھوٹا بچہ مر جائے تو اس کے لئے افسر طہ آتا ہے عند اللہ خیرًا: ثواب کی امید رکھنا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ لَا يُحْتَسَبُ بِهِ": یعنی فلاں اس کے مقابلہ میں کسی شمار میں نہیں۔ و "فَلَانٌ اسْتَعْطَانِي فَأَحْسَبُنُهُ": فلاں نے مجھ سے عطیہ مانگا اور میں نے اس کو کافی دیا۔

التَحَاسِبُ: فا۔ حساب والے۔ ح حَسْبَةٌ۔ الحَسْبُ: مَضَّ - کافی ہونا۔ کہا جاتا ہے "حَسْبُكَ دَرَهْمٌ" اور باء کی زیادتی سے "بِحَسْبِكَ دَرَهْمٌ": بھی کہا جاتا ہے یعنی تمہارے لئے ایک درہم کافی ہے۔ و هذا رَجُلٌ حَسْبُكَ مِنْ رَجُلٍ: یہ مرد تمہارے لئے اس مرد سے کافی ہے۔ و "زَيْدٌ صَدِيقِي فَحَسْبِي أَوْ فَحَسْبُ" زید میرا دوست ہے

التَحَاسِبُ: فا۔ حساب والے۔ ح حَسْبَةٌ۔ الحَسْبُ: مَضَّ - کافی ہونا۔ کہا جاتا ہے "حَسْبُكَ دَرَهْمٌ" اور باء کی زیادتی سے "بِحَسْبِكَ دَرَهْمٌ": بھی کہا جاتا ہے یعنی تمہارے لئے ایک درہم کافی ہے۔ و هذا رَجُلٌ حَسْبُكَ مِنْ رَجُلٍ: یہ مرد تمہارے لئے اس مرد سے کافی ہے۔ و "زَيْدٌ صَدِيقِي فَحَسْبِي أَوْ فَحَسْبُ" زید میرا دوست ہے

التَحَاسِبُ: فا۔ حساب والے۔ ح حَسْبَةٌ۔ الحَسْبُ: مَضَّ - کافی ہونا۔ کہا جاتا ہے "حَسْبُكَ دَرَهْمٌ" اور باء کی زیادتی سے "بِحَسْبِكَ دَرَهْمٌ": بھی کہا جاتا ہے یعنی تمہارے لئے ایک درہم کافی ہے۔ و هذا رَجُلٌ حَسْبُكَ مِنْ رَجُلٍ: یہ مرد تمہارے لئے اس مرد سے کافی ہے۔ و "زَيْدٌ صَدِيقِي فَحَسْبِي أَوْ فَحَسْبُ" زید میرا دوست ہے

التَحَاسِبُ: فا۔ حساب والے۔ ح حَسْبَةٌ۔ الحَسْبُ: مَضَّ - کافی ہونا۔ کہا جاتا ہے "حَسْبُكَ دَرَهْمٌ" اور باء کی زیادتی سے "بِحَسْبِكَ دَرَهْمٌ": بھی کہا جاتا ہے یعنی تمہارے لئے ایک درہم کافی ہے۔ و هذا رَجُلٌ حَسْبُكَ مِنْ رَجُلٍ: یہ مرد تمہارے لئے اس مرد سے کافی ہے۔ و "زَيْدٌ صَدِيقِي فَحَسْبِي أَوْ فَحَسْبُ" زید میرا دوست ہے

التَحَاسِبُ: فا۔ حساب والے۔ ح حَسْبَةٌ۔ الحَسْبُ: مَضَّ - کافی ہونا۔ کہا جاتا ہے "حَسْبُكَ دَرَهْمٌ" اور باء کی زیادتی سے "بِحَسْبِكَ دَرَهْمٌ": بھی کہا جاتا ہے یعنی تمہارے لئے ایک درہم کافی ہے۔ و هذا رَجُلٌ حَسْبُكَ مِنْ رَجُلٍ: یہ مرد تمہارے لئے اس مرد سے کافی ہے۔ و "زَيْدٌ صَدِيقِي فَحَسْبِي أَوْ فَحَسْبُ" زید میرا دوست ہے

التَحَاسِبُ: فا۔ حساب والے۔ ح حَسْبَةٌ۔ الحَسْبُ: مَضَّ - کافی ہونا۔ کہا جاتا ہے "حَسْبُكَ دَرَهْمٌ" اور باء کی زیادتی سے "بِحَسْبِكَ دَرَهْمٌ": بھی کہا جاتا ہے یعنی تمہارے لئے ایک درہم کافی ہے۔ و هذا رَجُلٌ حَسْبُكَ مِنْ رَجُلٍ: یہ مرد تمہارے لئے اس مرد سے کافی ہے۔ و "زَيْدٌ صَدِيقِي فَحَسْبِي أَوْ فَحَسْبُ" زید میرا دوست ہے

التَحَاسِبُ: فا۔ حساب والے۔ ح حَسْبَةٌ۔ الحَسْبُ: مَضَّ - کافی ہونا۔ کہا جاتا ہے "حَسْبُكَ دَرَهْمٌ" اور باء کی زیادتی سے "بِحَسْبِكَ دَرَهْمٌ": بھی کہا جاتا ہے یعنی تمہارے لئے ایک درہم کافی ہے۔ و هذا رَجُلٌ حَسْبُكَ مِنْ رَجُلٍ: یہ مرد تمہارے لئے اس مرد سے کافی ہے۔ و "زَيْدٌ صَدِيقِي فَحَسْبِي أَوْ فَحَسْبُ" زید میرا دوست ہے

التَحَاسِبُ: فا۔ حساب والے۔ ح حَسْبَةٌ۔ الحَسْبُ: مَضَّ - کافی ہونا۔ کہا جاتا ہے "حَسْبُكَ دَرَهْمٌ" اور باء کی زیادتی سے "بِحَسْبِكَ دَرَهْمٌ": بھی کہا جاتا ہے یعنی تمہارے لئے ایک درہم کافی ہے۔ و هذا رَجُلٌ حَسْبُكَ مِنْ رَجُلٍ: یہ مرد تمہارے لئے اس مرد سے کافی ہے۔ و "زَيْدٌ صَدِيقِي فَحَسْبِي أَوْ فَحَسْبُ" زید میرا دوست ہے

اور میرے لئے کافی ہے۔

الحَسْبُ الحَسْبُ: حسب: کا مصدر۔ عدد۔ اندازہ کہا جاتا ہے "هذا بحسب ذاك": یہ اس کے موافق ہے وَاغْمَلْ عَلَيَّ حَسْبًا صَا أَمْرُكَ" یعنی کرو اس کے موافق جیسا میں نے تم کو حکم دیا ہے۔ "وَحَسْبًا ذِكْرًا": موافق اس کے جو ذکر کیا گیا۔ خاندانی شرافت، آباء و اجداد کے مفخر۔ الحَسْبُ: شمار کیا ہوا۔

الحِسَابُ محس: شمار۔ کافی۔ کہا جاتا ہے "أَعْطَاهُ عَطَاءً حَسَابًا": اس نے اس کو کافی دیا۔ لوگوں کی بڑی جماعت۔ کہا جاتا ہے "انسانی حساب من الناس": جیسا کہ کہا جاتا ہے "خَاءٌ نَبِيٌّ عَدَدٌ مِنْهُمْ وَيَرْزُقُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ بغير حساب": اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر کسی وقتی کے رزق دیتا ہے۔ حساب الجَمَلِ: حروف ابجد کا حساب۔ يَوْمُ الحِسَابِ: قیامت کا دن۔

الحِسَابِيُّ: حساب والے۔ الحسنة محس: میت کو پتھروں میں یا کفن کر دینا۔ ثواب۔ جزا۔ حَسْبُ الحَسْبُ: خاندانی شرف والا۔ حساب جانچ کر کرنے والا۔ کہا جاتا ہے "كفني بالله حَسْبًا":

الحَسْبَانُ: حساب۔ چھوٹے تیرے۔ واحد (حَسْبَانَةٌ)

كفني بالله حَسْبًا: اللہ کافی حساب کرنے والا ہے۔ کئی فعل ماضی یا حرف جارہ زائدہ ہے۔ لفظ اللہ فاعل محذوف ہے۔ حَسْبًا: تیز ہے۔

الحَسْبَانَةُ: کڑک۔ بادل۔ اولے۔ بیوی (.....) وَالْمَحْسَبَةُ: چھوٹا تکیہ۔

مُحْسَبُ: البلد: شہر میں حاکم کی طرف سے اوزان وغیرہ کی دیکھ بھال کے لئے جو مقرر ہو۔

حَسْبُ حَسْبِي: حسی اللہ: کہنا۔

حَسْبُ حَسْبِي: درمند ہونا..... اللحم:

گوشت کو انگاروں پر ڈال کر اٹھانا۔

تَحَسَّنَ الحَسَنَ: الحَسَنَ: لالقیام: حرکت کرنا..... اوباز الابل: متفرق و پراگندہ ہونا۔ گر جانا۔ حَسَدٌ (ان ش) حَسَدًا و حَسَادَةٌ و حَسَدٌ: فلانا نعمته و علی نعمته: زوال نعمت کی تمنا کرنا یا دوسرے سے نعمت کے زوال اور اپنے لئے حصول کی تمنا کرنا۔ صفت (حَسَادٌ) حَسَادًا و حَسَدًا و حَسَدًا:

أَحْسَدٌ حاسد پانا۔ حَسَادًا: ایک دوسرے کے زوال نعمت کی تمنا کرنا۔

الحَسُودُ: وہ شخص جو طبعاً حاسد ہو (مذکورہ مؤنث) حَسَدًا:

الحَسَادُ: بہت حد کرنے والا۔ المَحْسَدَةُ: باعث حسد۔

حَسْرٌ (ان ش) حُسُورًا: البَصْرُ: نگاہ کا تھک جانا۔ الشَّيْءُ: کھل جانا..... السماء: نیچے اتر جانا..... حَسْرًا) الرَجُلُ اوالدابة: تھکانا۔

حَسْرٌ (ان ش) حَسْرًا: الشَّيْءُ: کھولنا۔ کہا جاتا ہے "حَسْرٌ كَمَهُ عَن ذِرَاعِهِ": یعنی اس نے آستین چڑھائی۔ "وَحَسْرَتِ الحَارِيَةِ حَسْرًا هَاعِنٌ وَجْهَهَا: یعنی لڑکی نے اپنی اور حسی اپنے چہرہ سے ہٹا دی۔ صفت مؤنث (حَسِيرٌ) حَسْرًا و حَسْرًا:

حَوَابِرُ الحَسْرُ: میدان جنگ کے پیادے جن کے سر اور چہرے کھلے ہوئے ہوں یا جن کے جسم پر زرد اور سر پر خود نہ ہوں..... الغصنُ:

چھینا..... البيت: جھاڑو دینا..... الدابة: چلا کر تھکانا۔ حَسِيرٌ (س) حَسْرًا: تھکانا۔ (.....) حَسْرًا و حَسْرًا) افسوس کرنا۔ حَسْرٌ: الطيْرُ: پروں کا گرنا۔ حَسْرَةٌ: افسوس کرنا۔ افسوس کرنے پر برا بھلا کہنا۔ تکلیف دینا۔ حقارت کرنا۔

أَحْسَرُ. الدابة: چلا کر تھکانا۔

تَحَسَّرُ. عليه: افسوس کرنا۔ الشَّيْءُ اوالسريش: گرنا۔ جھڑنا۔ تَحَسَّرُ الطائرُ: پروں کا گرنا۔ تَحَسَّرَتِ المرأةُ: برہنہ رُو ہو کر بیٹھنا۔

أَحْسَرُ. الشَّيْءُ: کھلنا..... الطيْرُ: پرانے پر گر کر گرنے لگانا۔ اِسْحَسَرُ: تھکانا۔

أَحْسَابُ: افسوس کرنا۔ افسوس کرنے والا۔ عورت جس نے اپنے چہرہ سے اور حسی کو ہٹا دیا ہو۔

الحَسِيرُ: تھکانے والا۔ افسوس کرنے والا۔ الحَسِيرُ: تھکا ہوا۔ کمزور۔ افسوس کرنے والا۔ تھکانے والا۔ حَسْرِيٌّ:

الحَسْرَانُ: فوت شدہ چیز پر زیادہ افسوس و حسرت کرنے والا۔

التَّحَابِيرُ: محبتیں۔ بلائیں۔ واحد (تَحْبِيرٌ)

المَحْسِرُ و المَحْسَرُ: چہرہ۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ مَلِيحٌ المَطْطَرُ و كَرِيمٌ المَحْسَرُ": فلاں دیکھنے میں خوبصورت اور باطن کے لحاظ سے کریم ہے۔ طبیعت۔ ح محاسب کہا جاتا ہے "أَرْضٌ عَارِيَةٌ المَحَابِسُ: بغیر نباتات والی زمین۔ المَحْسَرَةُ: جھاڑو۔

المَحْسُورُ: البَصْرُ: تھکی ہوئی نگاہ والا۔ حَسَفْتُ (ض) حَسْفًا و حَسْفًا:

الحَيَّةُ: پھنکا کرنا (حَسَفْتُ (ض) حَسْفًا) السحابُ: چلنا..... الغنمُ: یا کتا

الصمرُ: صاف کرنا القرحة: چھینانا۔ (حَسْفًا و حَسْفًا) الزرعُ: کاٹنا۔ حَسَفْتُ (س) حَسْفًا: لہ: کیڑہ رکھنا۔

غضب ناک ہونا۔ اَحْسَفُ. الصمرُ: عمدہ کھجوروں میں روٹی کھجوریں ملا دینا۔

حَسَفُ. الصمرُ: عمدہ کھجوروں میں روٹی کھجوریں ملا دینا۔

حَسَفُ. الصمرُ: عمدہ کھجوروں میں روٹی کھجوریں ملا دینا۔

حَسْفُ: التمر: رومی مجوروں سے صاف کرنا۔

تَحْسَفُ: الجلد: چھلنا..... ادباز الابل: اونٹ کے بالوں کا جھڑ جانا۔

إِحْسَفُ: الشئ في يدى: ریزہ ریزہ ہونا۔

الحساف: کھائی ہوئی چیز کا تھوڑا بقیہ۔

الحسافة: رومی مجوریں یا مجور کے چھلکے۔

کہا جاتا ہے "فلان لا يعطى من الأثر إلا ساقته ومن التمر إلا حسافته" فلاں

گیہوں کی صرف چھتکن اور مجوروں میں سے

صرف رومی مجوریں دیتا ہے۔ تھوڑا پانی۔

حسافة الناس: رذیل لوگ۔ (الحسافة

والحسيفة) دشمنی۔ حسد۔ کہتے ہیں "زجع

بحسيفة نفسه": بغیر اپنی حاجت پوری کئے

ہوئے واپس ہوا۔

حسك (س) حسكا: عليه غضب

ناک ہونا۔ صفت (حسك) الدابة: چارہ

کھانا دانہ چبانا۔

أحسك: الدابة: چارہ دینا۔

النبات: کانٹے دار ہونا۔

الحسك: ممس: کانٹے دار پودہ۔

باریک ہڈی واحد (حسكة)

الحسكة: جانور کا دانہ۔ تہی۔

(والحسكة والحسكة) دشمنی۔ کینہ۔

الحسك: پست قدم۔

حسل (ن) حسلًا: الشئ: ذلیل کرنا۔

الدابة: تیز ہانکنا۔

حسل: به: ذلیل کیا جانا۔

حسل: بنفسه: اپنے آپ کو ذلیل کرنا۔

وانت اختار كرتا۔

تحسل: اختسل: گوہ کے پچھ کا شکار کرنا۔

الحسل: گوہ کا پچھ۔ ج حسله: و اختسل

و حسلول و حسلان: کہا جاتا ہے

"لا أتیک سن الحسل" یعنی میں

تمہارے پاس کبھی نہیں آؤں گا چونکہ گوہ کے

دانہ موت تک نہیں گرتے اس لئے وہ ام

سے کہنا یہ کیا گیا اور لفظ بمن منصوب بنزع

الخلاص ہے اور اس وجہ سے کہ تقدیر مدة

بقضاء سن الحسيل ہے۔ ابو حسل

و ابو حسيل: گوہ۔

الحسالة: چاندی۔ چاندی کے ذرات جو

وغیرہ کی بھوسی۔ (والحسيلة: قوم کے ادنیٰ

درجہ کے لوگ۔

الحسيل: گائے کے بچے۔ واحد۔

(حسيلة) گھٹیا چیز۔ ج حسل.

المحسول: گھٹیا۔ رومی۔

حسمة (ش) حسما: جڑے کاٹنا۔

حسم العوق: رگ کاٹ کر خون روکنے کے

لئے واغ دینا السداء: مرض کو دوا سے دور

کرنا۔

حسمة الشئ: روکنا منع کرنا۔

الحسمة: جڑے کھانا۔

الاحسمة: باخبر فیملہ کن مرو۔

الحسوم: نامبارک۔ منحوس۔ کہا جاتا ہے

"ایام حسوم" (علی الوصف) "ایام

حسوم" (عی الاضافة) یعنی نامبارک و

منحوس دن۔

الحسام: شمشیر بردان۔ حسام

السيف: تلوار کی دھار۔

المحسفة: کانٹے کا ذریعہ۔ کہا جاتا ہے

"هذا حسفة للداء": یہ مرض کے دور

کرنے کا ذریعہ ہے۔

حسَن و حسِن (ک۔ن)

حسنا: خوبصورت ہونا۔ صفت (حسن) ج

حسان و حسان: ج حسانون و حسانین

و حسینق مؤنث حسنة و حساناء ج

حسان و حسانات اور مبالغہ کے لئے

(حسان) مؤنث حسانة.

حسنة: آراستہ کرنا۔ خوبصورت بنانا۔

حسانة حساسة: خوبصورتی میں مقابلہ

کرنا۔ نرمی برتنا۔ نیک سلوک کرنا۔ کہا جاتا

ہے "انسی لأحاسین بک الناس" میں

تمہاری خوبیوں کی وجہ سے لوگوں پر فخر کرتا

ہوں۔

أحسن: نیکی کرنا۔ اچھی طرح سے کرنا۔

..... الشئ: اچھی طرح بنانا۔ اچھی طرح

جاننا۔ کہا جاتا ہے "فلان یحسن

القرائة" فلاں اچھی طرح پڑھتا ہے..... البه

وبه: نیک سلوک کرنا۔ نیکی کرنا۔

تحسن: خوبصورت ہونا۔ اچھا ہونا۔

بکذا: آراستہ ہونا۔ موٹنا۔ کہا جاتا ہے

"ذخل الحمام فتحسن": وہ حمام میں

داخل ہوا اور حجامت بنائی۔

استحسنة: اچھا جاننا۔

حسَن: جمال و خوبصورتی۔ ج

محاسن: (خلاف قیاس) المحاسن: بدن

کے خوبصورت مواقع حسن ساعة: ایک قسم

کی نباتات ہے جو طلوع آفتاب سے پہلے

کھلتی اور طلوع آفتاب کے بعد مرجھا جاتی

ہے چونکہ اس کی خوشنمائی تھوڑی دیر کے لئے

ہوتی ہے اس لئے اس کا یہ نام ہے۔ بیٹ

الحسن: ایک قسم کی نباتات جو درختوں پر

لپٹی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا پھول عمدہ

خوبصورت ہوتا ہے۔ الحسن: کبھی کے

پاس ایک ہڈی کا نام۔

الحسن: ممس: کبھی کے پاس کی ہڈی۔

بلند نیلہ۔ الحسنان: سیدنا حسن و سیدنا

حسین رضی اللہ عنہما۔

الحسنة: نیکی۔ بھلائی۔ ج حسنات.

الاحسن: حسن کا اسم تفضیل۔ ج احسان

مؤنث حسنی: اور کبھی شاذ طریقہ سے اس

کی تصغیر أحسین: لاتے ہیں اور کہتے ہیں "ما

أحسین زیذا"..... احسان القوم: قوم

کے خوبصورت لوگ۔

الحسنی: اچھا کام۔ اچھا انجام۔ اللہ تعالیٰ

کو دیکھنا۔ کامیابی۔ شہادت۔ ج حسنیات

وحسن..... الاسماء الحسنی: اللہ تعالیٰ

کے ننانوے نام۔

الحسنیان: فتح مندی و شہادت۔ کہا جاتا

ہے "حسیناه و حسیناءه أن یفعل

گذا: اس کے لئے انتہا یہ ہے اور جن کاموں کے کرنے کی طاقت رکھتا ہے ان میں بہتر یہ ہے کہ ایسا کرے۔

الحشون: ایک خوبصورت خوش آواز چھوٹا سا پرندہ۔

المحسان: بہت بھلائی کرنے والا۔

التحاسین: اچھی چیزیں۔ کہا جاتا ہے "ما أبدع تحاسین الطافوس وتزائنه"۔ مور کی خوبی اور زینت کس قدر نادر اور عجیب ہے۔

المخنة: سبب حسن۔ کہا جاتا ہے "هذا طعام مخنة للجسم"۔ یہ خوراک جسم کے لئے باعث حسن ہے۔

الجينة: پہاڑ کا نکلا ہوا گوشہ۔

حنا (ن) حنواً وتحشى واختنى المرق: تھوڑا تھوڑا پینا..... الطائز الماء: چونچ سے پانی پینا۔

حشى وأخسى وحاسى: الرجل المرق: تھوڑا تھوڑا پلانا۔

تخاصياً: ایک دوسرے کو شور با پلانا۔

الحشو والحسا والحساء والحشو: ہر رتق چیز جو پنی جا سکے اور اس سے ہے "يوم كحشو الطير" یعنی بہت چھوٹا دن۔ ایک قسم کا کھانا جو آنا اور پانی ملا کر تیار کیا جاتا ہے۔

الحشو: بہت گھونٹ گھونٹ پینے والا۔

الحسوة: حسا: کا اسم مرۃ گھونٹ۔ ح حسوات۔

الحسوة: ایک مرتبہ گھونٹ لگانے کا اندازہ۔ کہا جاتا ہے "فى الانشاء حسوة" برتن میں ایک گھونٹ کی مقدار ہے۔ ح اخبیة

وأحسوة وجع أحاسی.

الخبیة: وہ چیز جو پنی جا سکے۔

حسى (ض) حسیاً واختنى: نرم دلدلی زمین۔

المحساة: پانی بھینچنے کا تیل۔

حش (ن) حشاً: العشب: کاٹنا.....

النار: سلگانا اور کریدنا..... الحروب: بھڑکانا

الفسرس: گھاس ڈالنا اور اسی سے مثل ہے..... "أحشک وتروثی" میں تیرے لئے

گھاس ڈالتا ہوں اور تو میرے اوپر لید ڈالتا ہے یعنی میں تیرے ساتھ نیکی کرتا ہوں اور تو میرے ساتھ بُرائی سے پیش آتا ہے.....

المسال: بڑھانا۔ زیادہ کرنا..... الصیة: دونوں جانب سے گھیرنا۔ حشبت الیذ: مثل ہونا..... الولذ فی بطن الناقة:

پیٹ میں خشک ہونا۔

..... الفرض: تیز دوڑنا۔

أحش: الکلاء: کاٹنے کا وقت قریب آنا..... الارض: گھاس والی یا بہت گھاس والی

ہونا۔ أحشاً: گھاس کاٹنے میں مدد دینا

احشبت الناقة او السرارة: پیٹ میں بچہ خشک ہونا۔ حفت (فحش) أحشة عن حاجته: جلدی کرانا۔

أحش: الحشیش: گھاس جمع کرنے کی کوشش کرنا۔

استحش: الرجل: پیاسا ہونا..... الغصن: لمبی ہونا..... الیذ: مثل ہونا۔

..... العظم: باریک ہونا۔

الحشیش: خشک گھاس۔ واحد (حشیشیة) الحشیشیة: بھنگ۔

حشیشة الملاک: یورپ کا پودا جو کہ اب ایشیا میں بھی آگایا جاتا ہے۔ اکثر نشہ آور اشیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

الحشاشة والحشاش: مریض یا زخمی کی بقیہ روح۔ کہا جاتا ہے "حشاشاک ان تفعل کذا": تمہاری انتہائی کوشش یہ ہے کہ تم ایسا کرو۔

الحش والحش والحش: باغ۔ کھجوروں کا جھنڈ۔ پانخانہ۔ ح حشوش وحشون.

الحش بالضم: مال کے پیٹ میں مردہ بچہ۔ الحش بالكسر: کچھ۔ الحش بالفتح: چھوٹا مر جمایا ہوا کھجور کا پودہ۔ ح حشان.

حش (ن) حشاً: العشب: کاٹنا.....

الحشة: بڑا قہر۔

الحشاش: گھاس کی گون۔ ہر چیز کا کنارہ۔ ح أحشة.

الحشاش: گھاس کا جمع کرنے والا یا بیچنے والا۔ بھنگ پینے والا۔ ح حشاشون وحشاشه.

الأحشوش والمحشوش: مال کے پیٹ میں خشک بچہ۔

المحش والمخشة: بہت گھاس والی جگہ۔ ح محاش: المخشة: دیر۔

المحش: گھاس کاٹنے کی دانتی۔

(..... والمخشة) آگ ہلانے کی اوہے کی کریشی۔ المحش: دلا اور۔

حشاً (ف) حشفاً: النار: روشن کرنا۔

..... ہسہم: کسی کے جوف میں تیرا مارنا..... ہسوط: پیٹ یا پہلو پر کوڑا مارنا۔

المرأة: جماع کرنا۔

المحشأ: موٹا کبیل۔ ح محاشی.

أحشبه: فضب ناک کرنا۔

أحشبنوا: اکٹھا ہونا۔

الحوشبة: لوگوں کی جماعت۔

الحوشب: خرگوش۔ مچھرا۔ زلومڑی۔

دبلا۔ پھولے ہوئے پہلوؤں والا (ضد)

حشحشوا وتحشحشوا: اٹھنے کے لئے حرکت کرنا۔ حشحشة النار: جلانا۔

تحشحش القوم: متفرق ہونا۔ حشد (ن ض) حشداً: الشی: جمع کرنا۔

(حشوداً) النزوع: پوری طرح اٹگنا..... الناقة: تھن میں دوڑھ جمع کرنا..... القوم: پکار کا جلدی جواب دینا۔

حشداً: الشی: جمع کرنا۔

أحشد وتحشد وتحششد وأحششد القوم: ایک مقصد کے لئے جمع ہونا۔ کہا جاتا ہے "أحششد لنا فی الضیافة": اس نے

مہمانی میں دریا دلی سے کام لیا۔ "وأحششد لفلان فی کذا": اس نے فلان کے لئے تیار

کیا۔

الحَشْدُ: منس۔ (.....) والحَشْدُ جماعت۔ کہا جاتا ہے "عندی حشد من الناس" میرے پاس لوگوں کی جماعت ہے۔ ح حَشُوْدٌ الحاشيد: فا۔ بغیر کوتاہی کے اونٹنی کا دودھ دوہنے والا۔ بہت دانوں والا کھجور کا گچھا۔ مستعد و تیار۔ کہا جاتا ہے "فلان حاشيد" فلان خدمت میں پوری کوشش کرنے والا ہے۔ الحَشِيدُ: وہ شخص جو مدد کرنے اور مال خرچ کرنے اور کوشش کرنے میں دریغ نہ کرے۔ ح حَشْدٌ عین حَشْدٌ: چشمہ جس کا پانی خشک نہ ہو۔ الحَشْوُدُ: تھن میں جلدی دودھ جمع کرنے والی اونٹنی۔ المَحْشُوْدُ: وہ شخص جس کی خدمت کرنے میں لوگ چست ہوں۔ المَحْشَاذُ: بھلیں بھلیں۔ حَشْرٌ (ن ض) حَشْرًا: الناس: جمع کرنا..... ہ عن وطنہ: جلا وطن کرنا۔ حَشْرُ الجمع: ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹکانا..... السعود: چھیلنا اور باریک کرنا..... السنَّة الشديدة المال: مال یعنی اونٹوں کو لاغر کر دینا اور ہلاک کر دینا۔ حَشْرٌ وَاَحْتَشِرُ: فی راسہ: بڑے سرو والا ہوتا۔ علیٰ هذا القياس. حَشْرٌ فِی بَطْنِهِ: بڑے پیٹ والا ہونا اور جسم کے ہر حصہ کے ساتھ مستعمل ہے۔ حَشْرِيَتُ الوَحْشُ: مرنا و ہلاک ہونا۔ الحَشْرُ: منس..... مِنْ الاذان: باریک کان۔ کہا جاتا ہے "اَذُنٌ حَشْرٌ" وَاَذْنَانُ حَشْرٌ وَاَذْنَانُ حَشْرٌ: ساری صورتوں میں واحد ہی مستعمل ہے۔ اس وجہ سے کہ مصدر ہے۔ الحشر من الاسنة: باریک نیزہ۔ ح حَشْرٌ. يَوْمَ الحَشْرِ: قیامت کا دن۔ الحَشَاةُ: معمولی درجہ کے لوگ (بعضوں کے نزدیک "الحشارة": کی تھیف ہے۔)

الحاشير: فا۔ ح حاشرون و حَشَارٌ. الحَشْرَةُ: چمکلا جو دانہ سے ملا ہوا ہو۔ ح حَشْرٌ الحَشْرَةُ: ح حَشْرَاتٌ: کبڑا اکوڑا یا چھوٹے چھوٹے جانور۔ الحَشْرُ: بھوسی۔ الحَشْوُرُ: بڑے پیٹ والا۔ چھوٹے ہونے پہلوؤں والا۔ لطیف قدم قامت والا۔ کہا جاتا ہے "فوس حَشْوُرٌ" اچھے ذیل ڈول کا گھوڑا۔ المَحْشَرُ والمَحْشِرُ: لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ۔ حَشْرَجٌ حَشْرَجَةٌ: جاں کنڈنی کے وقت گھٹکر و کا بولنا۔ الحَشْرَجُ: آب خورہ جس میں پانی ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ پہاڑ کا گڑھا جس میں پانی صاف ہو۔ حَشْفٌ (ض) حَشْفًا: الضرع: دودھ خشک ہو جانا۔ أَحْشَفٌ: النخلة: ردی کھجور والا ہونا..... ضرعُ الناقة: سکرنا۔ سمننا۔ حَشْفٌ: عينه: آنکھیں بھیج کر دیکھنا۔ تَحْشِفٌ: پرانا کبڑا پہننا۔ اسْتَحْشَفُ: اذُن الانسان: خشک ہو کر سمننا..... ضرعُ الأنثى: سکرنا۔ سمننا۔ الحَشْفُ: ردی کھجور "أَحْشَفًا وَسُوءٌ سَكِيلَةٌ": (ردی کھجور اور پھر کم ناپ) اس شخص کے حق میں بطور ضرب المثل کے بولتے ہیں جس کے اندر ردی عادتیں جمع ہوں۔ جیسے اردو میں "کر یا اور نیم چڑھا"۔ خشک پستان۔ الحَشْفَةُ: ذُفْلٌ جو کھیت کٹنے کے بعد باقی رہ جائے۔ خشک خمیر۔ گول چھوٹا جزیرہ جس پر پانی نہ چڑھ سکے۔ ح حَشْفٌ حَشْكٌ (ض) حَشْكًا و حَشْوُكًا: الضرع: دودھ سے پر ہونا..... الحَبَابُ: بہت پانی والا ہونا..... النخلة:

بہت پھلدار ہونا۔ صفت (حاشيك)..... الوادی: پانی کو باہر پھینک دینا۔..... القوم: جمع ہونا..... السريح: مختلف جہات سے چلنا..... الناقة لبنها: تھن میں دودھ جمع کرنا۔ صفت (حَشْوُكٌ)..... الناقة دودھ جمع ہونے کے لئے تھن میں چھوڑ دینا۔ صفت مقولی (مَحْشُوْكَةٌ) حَشِكٌ (س) حَشِكًا: الدابة جو وغیرہ چپاتا۔ حَشِكٌ اللبن فی الضرع: جلدی سے تھن میں دودھ جمع ہونا۔ أَحْشِكٌ: الدابة: جو وغیرہ کھلانا۔ تَحْشِكٌ: الضرع: دودھ سے پر ہونا۔ الحَشِكَةُ: بارش کی بو پھار۔ الحَشِكَةُ: جماعت۔ کہا جاتا ہے "جاءَ وَاَحْشِكُ كَيْهَمٌ": لوگ اپنی جماعت کے ساتھ آئے۔ الحَشِيْكَةُ: جانوروں کے کھانے کے لئے جو وغیرہ (السرياح الحواشيك) مختلف جہات سے چلنے والی ہوائیں۔ واحد (حاشيكة) الحَشَاكَةُ والحَشَاكُ: بکڑی جو جانور کے بچے کے منہ میں لگا دی جائے تاکہ دودھ نہ پی سکے۔ حَشَلٌ (ن) حَشَلًا: الشئ: حقیر و ذلیل کرنا۔ الحَشَلُ: حقیر و ذلیل چیز۔ حَشْمَةٌ (ن ض) حَشْمًا: تاپند بات سنا کر غضب ناک کرنا۔ تکلیف پہنچانا۔ شرمندہ کرنا۔..... الشئ: طلب کرنا۔ کہا جاتا ہے مَا حَشْمٌ الصَّيْدِ: اس نے شکار کو نہیں پایا و "مَا حَشْمٌ مِنْ طَعَامِنَا" اس نے ہمارے کھانے سے نہیں کھایا۔ حَشْمٌ (ض) حَشْمًا: جھکانا۔ لاغری کے بعد فریہ ہونا..... منہ: منقبض ہونا۔ حَشِمٌ (س) حَشِمًا: غضب ناک ہونا۔ حَشِمًا: غضبناک کرنا۔

حَشْمَةٌ وَأَحْشَمَةٌ: غضبناک کرنا۔ شرمندہ

کرنا۔ وَحَشْمَةٌ: تکلیف پہنچانا۔

حَاشِمَةٌ: غضبناکی پر براہیجت کرنا۔

تَحَشَّمٌ: من فلان شرم کرنا۔ مذمت سے بچنا۔

إِحْتِشَمٌ: منه وعنه: غضبناک ہونا۔ منقبض ہونا۔ شرم کرنا۔

حَشْمٌ: الرجل: نوکر چا کر۔ کسی شخص کے وہ قرابت دار یا غلام یا ہمسائے وغیرہ جو اس کے لئے دوسروں پر غضبناک ہوں یا جن کی وجہ سے یہ غضبناک ہو۔ اہل و عیال۔ قرابت۔ حِشَامٌ: جِاحِشَامٌ۔

الْحَشْمَةُ: غضب۔

الْجَشْمَةُ: شرم و حیاء۔ انقباض۔ تحصہ و غضب۔

الْحَشْمَةُ: عورت قرابت ذمہ داری۔

الْحَشِيمُ: کامل حیاء دار۔ پڑوسی۔ مہمان جِ حُشْمَاءُ۔

حِشِنٌ (س) حَشْنَا: السقاء: دیر تک دو دو رہنے کی وجہ سے بدبودار ہونا۔

أَحْشَنُ: السقاء: بدبودار کرنا۔

حَاشِنَةٌ: یا ہم گالی گلوچ کرنا۔

تَحَشَّنٌ: میلا ہونا۔ کمائی کرنا۔

الْحَشِينُ: مِص: دو دوہ کی چکناہٹ کی وجہ سے میل کیل۔

الْحَشِينَةُ: کینہ۔

حَشَا (ن) حَشْوًا: الوَسَادَةُ بِالْقَطْنِ: بکری میں روئی بھرتا..... السرجل: کسی کے حشا پر مارتا۔ (دیکھئے لفظ الحشا۔

حَاشَاهُ: تھوڑی چیز دینا۔

إِحْتِشَى إِحْتِشَاءً: بھر جانا۔ کہا جاتا ہے "إِحْتِشَتِ الرَّمَانَةُ بِالْحَبِّ": انار دانوں سے بھر گیا۔ وإِحْتِشَى مِنَ الطَّعَامِ: وہ کھانے سے آسودہ ہو گیا۔ "إِحْتِشَتِ

المرأة الحشبية وبها": عورت نے حشبية کا استعمال کیا۔ (دیکھئے لفظ الحشبية)

الحشبية: من الناس والابل: چھوٹے

چھوٹے جن میں بڑے نہ ہوں۔

الحشأ: پالیوں کے اندر کی چیزیں۔ پیٹ

کے اندر کی چیزیں۔ جِاحِشَاءُ: کہا جاتا ہے

"أنا في حشأ فلان": میں فلاں کی پناہ میں ہوں۔ "وفلان حشهم حشأ": فلاں ان

میں سے حفاظت کے لحاظ سے بہتر ہے۔ الحشسو: مِص: چھوٹے چھوٹے آدمی یا

آؤٹ کلام کی زیادتی۔ رذیل لوگ وہ چیز جس سے کوئی چیز بھری جائے۔ مسالہ جو بکری

کے پیچے کے پیٹ میں بھرا جائے۔ جِاحِشِئِي: (خلاف قیاس)

الحشوة والحشوة: من البطن: آنتیں ردی چیز۔ کہا جاتا ہے "هو من حشوة بنی

فلان": وہ بنو فلان کے رذیل لوگوں میں سے ہے۔

الحشبية: توشک: گدی جس کو عورتیں بدن کے کسی حصہ کو نمایاں ہونے کے لئے پاندھتی ہیں۔ جِاحِشِئَا۔

الحشوي: بک بک کرنے والا۔

المحشئ: پیٹ میں کھانے کی جگہ۔

المحشئ: گدی جس کو عورتیں بدن کے کسی حصہ کو نمایاں ہونے کے لئے پاندھتی ہیں۔

جِاحِشِئِي۔

المُحْشَأة: من البطن: پیٹ کا وہ چملا حصہ جس میں کھانا رہتا ہے اور جو خرچ تک پہنچتا ہے۔

حِشِي (س) حِشِي: الرجل: حشيق النفس کی بیماری میں مبتلا ہونا..... السقاء: مشک کے اندرونی حصہ میں دو دوہ کی تہ جم جانا۔

حِشِي: الشوب: گوٹ لگانا۔ الکتاب: حاشیہ لکھنا۔ صفت قائل (مُحْشِي) اور مفعولی (مُحْشِي)

حَاشَا مُحْشَأَةً: زیداً من القوم: استثناء کرنا۔

تَحَشَّى: فلاناً: استثناء کرنا۔ تَحَشَّى مِنَ الشئِ: (وتَحَاشَى) عن الشئِ: بچنا دور رہنا۔ وتَحَشَّى فلاناً: مذمت سے بچنا۔

الحشئ: ضيق النفس: کی بیماری۔ پیٹ کے اندر کی چیزیں جیسے پکیٹی، تلی، اوچھڑی وغیرہ جِاحِشَاءُ۔

حَاشَا: كلمة استثناء جس کے ذریعہ مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہ کے حکم سے تزیہاً خارج کیا جاتا ہے جیسے

ضربت القوم حاشا زیداً: یہی وجہ ہے کہ صلی الناس حاشا زیداً: کہنا مستحسن نہیں

اس لئے کہ تزیہ کے معنی نہیں بنتے۔ اگر حاشا: فعل ہو تو نصب ہوگا اور اگر حرف جر ہو

تو مابعد حاشا جر آئے گا۔ الحشائية: گوٹ۔ کنارہ۔ اہل و عیال اور

خاص اپنے لوگ۔ کتاب کا حاشیہ۔ جِاحِشِئِي حِشَاش: کہا جاتا ہے "رجلٌ رقیق الحواشي": اچھی صحبت کا مرد۔ "وکلام رقیق الحواشي": نرم گفتگو۔

الحشئ: مؤنث حشبية و (الحشيان) مؤنث حشياء: حشيق النفس کی بیماری میں مبتلا ہونے والا۔

حَصَّ (ن) حَصًا: الشعر: مؤنث تا۔

..... الحليلة الثبت: پالے کا نباتات کو جلا دینا۔ حِصْبِي مِنَ المالِ كذا: مال میں سے حصہ مقرر کرنا..... الشئِ: لگھانا۔ کاٹ لینا۔

حَصَّ (س) حِصَصًا: جرت ہونے پر کے بال یا کم بال والا ہونا۔ صفت (احص) حِصَصٌ: الامر: ظاہر ہونا۔

أَحَصَّهُ: حصه دینا۔ أَحَصَّهُ المكان: جگہ میں آتا رہا۔

حَاصٌّ مُحَاصَّةٌ: الغُمامُ: حصے تقسیم کرنا۔

تَحَاصُّ: القوم الشئِ: آپس میں حصے تقسیم کرنا۔

أَحْصَصَ: الشعر: جھڑنا، گرنا..... اللحية: ٹوٹے ہوئے بالوں والی ہونا..... الذئب: کت جانا۔

الحِصَص: سر کے بالوں کی کمی۔ سر کے بالوں کا چھوٹا ہونا۔

الحِصَّة: حصہ۔ جِاحِصَصٌ۔

الخُصْبُ: زعفران۔ موتی۔ نَحْضُوص
وَأَخْصَاصُ.

الْخُصَّاصُ: دوڑنے کی تیزی۔ خارش۔
گوز۔

الْخُصَّاصَةُ: انگوڑا کاٹنے کے بعد ٹٹی میں جو
باقی رہ جائے۔

الْخُصَّاءُ: خاک۔
الْخُصَّاءَةُ: ایک بیماری جس سے سر کے بال
گر جاتے ہیں۔

الْأَخْصُ: سر میں کم بالوں والا۔ وہ شخص جس
کے سین میں بال نہ ہوں۔ مِنَ الطَّيُورِ:
پرندہ جس کے بازو کے پر گر گئے ہوں۔
مَوْتٌ خُصَّاءٌ. يَوْمٌ أَخْصُ: بغیر بدلی کے
تخت سردی کا دن۔ سِنْفٌ أَخْصُ: بغیر جوہر
کے تلواریں۔ سَنَةٌ خُصَّاءٌ: خشک سال جس میں
پیداوار نہ ہو۔ رِيحٌ خُصَّاءٌ: بغیر غبار کے
صاف ہوا۔

الْخُصَيْصُ: عدد۔ کہا جاتا ہے "خُصَيْصُهُمْ
كُفْرًا": ان کی تعداد اتنی ہے۔ گدھے اونٹ
کے گروے ہوتے ہیں۔

الْخُصَيْصَةُ: موند کر یا اٹھیز کر حصے کئے
ہوئے بال۔ کان کے بال۔

حَصَا وَحِصْنِي (س) حَصَاً: الرُّضِيعُ: بچہ
سیر ہو کر دودھ پینا۔ مِنَ الْمَاءِ: سیراب
ہونا۔

أَخْصَاؤُهُ: سیراب کرنا۔
خُصْبُهُ (ن ض) حُصْبًا: نکلنے سے مارنا
(وَحُصْبٌ) الْمَكَانُ: نکلنا۔

خُصِبَ فِي الْأَرْضِ: جانا۔ عَنَهُ: تیز
بھاگنا۔ خُصِبَ عَنِ كَذَا: دور کرنا۔

حُصِبَ (س) حُصْبًا وَحُصِبَ: بکھرا کی
بیماری میں مبتلا ہونا۔ صَفَتْ (مَنْحُصُوبٌ)
حُصِبَ الْوَتْرُ: تانت کا کمان سے اُلٹ
جانا۔

أَخْصَبَ الْفَرَسُ فِي عَدْوِهِ: نکلنے لگا۔
عَنَهُ: اعراض و روگردانی کرنا۔ عَن
كَذَا: دور کرنا۔

تَحْصَبُ. الْخِمَامُ: دانہ کی تلاش میں جنگل
کی طرف اڑنا۔

تَحْصَبُوا: ایک دوسرے پر نکلنے پھینکنا۔
الْحُصْبُ: پتھر۔ نکلنے۔ ایدھن۔

الْحُصْبُ: دودھ جس کا کھن سر ہونے کی
وجہ سے نہ نکلا ہو۔

الْحُصْبَةُ وَالْحُصْبَةُ وَالْحُصْبَةُ: (ایک
بیماری کا نام) الْحُصْبَةُ: نکلنے کو اڑانے
والی تیز ہوا۔ اَرْضٌ حُصْبَةٌ: بہت نکلنے
والی زمین۔ لَيْلَةٌ الْحُصْبَةُ: ایام تشریق کے
بعد والی رات۔

الْحُصْبَاءُ: نکلنے والی نکلنے۔ واحد (حُصْبَةٌ)
الْحُصَابُ: فانا۔ نکلنے کو اڑانے والی تیز ہوا۔
اول۔ اول۔ برسانے والا بادل۔ نَجْ
خُصَابٍ.

الْمُحْصَبَةُ: بہت نکلنے والی زمین۔
خُصَّحْصَ حُصَّحَةً. الْحَقُّ: پوشیدگی

کے بعد ظاہر ہونا۔ الرَّجُلُ: پیر میں بیڑی
پڑے ہوئے کی طرح چلنا۔

الشَّيْءُ فِي الشَّيْءِ: مضبوط و محکم کرنے کے
لئے حرکت دینا۔ التراب وغیرہ: دانہیں
باہیں بلانا۔

تَحْصَحْصُ: زمین سے چمٹنا اور برابر ہونا۔
الْوَبْرُ وَالزَّبْرُ: اون یا روئیں کا جھڑ
جانا۔

الْحُصْحَاصُ وَالْحُصْحُصُ: مٹی
والحُصْحُصُ: پتھر۔ رَمَلٌ (حُصْحُصٌ
وَحُصْحُوصٌ) معاملات کے پیچھے پڑ کر تہ
تک پہنچنے والا۔

حَصَدَ (ن ض) حُصْدًا وَحُصَادًا
وَحُصَادًا وَأَخْصَدَ. الزَّرْعُ: دارتی سے

کاٹنا۔ اسی سے ہے "مَنْ زَرَعَ الشَّرَّ حَصَدَ
النَّدَامَةَ": جو برائی بونے گا پشیمانی کاٹے گا۔
صَفَتْ (حَاصِدٌ) حُصْدَةً وَحُصَادًا.

الْقَوْمُ بِالسِّيفِ: قتل کرنا۔
حَصَدَ (س) حُصْدًا: الجبلُ: مضبوط مٹی

ہوئی ہونا۔ السُّدْرُغُ: مضبوط بناوٹ کا

ہونا۔

أَخْصَدَ. الزَّرْعُ: کاٹنے کا وقت قریب ہونا
..... الجبلُ: بنا۔

أَسْتَخْصِدُ. الْقَوْمُ: جتنا بنا۔ الزَّرْعُ:
کاٹنے کا وقت قریب آنا۔ الجبلُ: مضبوط
مٹی ہوئی ہونا۔ الرَّجُلُ: غھبناک ہونا۔

الْحُصَادُ: کھیت کاٹنے والا۔
الْحُصَادُ وَالْحُصَادُ: مصل۔ کھیت کاٹنے کا
وقت۔ الْحُصَادُ: کٹی ہوئی کھیتی۔ حُصَادُ
الشَّجَرَةِ: درخت کا پھل۔ کہا جاتا ہے

"أَخَذُوا حُصَادَ الشَّجَرِ: انہوں نے
درخت کا پھل لیا۔ حُصَادُ الْقَوْلِ الْبَرِيَّةِ:
دانے جو حرکت کرنے کی وجہ سے گر جائیں۔

الْحُصْدُ وَالْحُصَيْدُ وَالْحُصَيْدَةُ: کھیت کا
کٹا ہوا حصہ۔ السُّحْبَةُ: کھیتی کا وہ پتلا
حصہ جو دارتی سے کٹنے کے بعد رہ جائے۔
کھیتی۔ نَجْ حُصَادٍ. وَحُصَادُ الْأَيْسَةِ: جو

باتیں دوسروں کے حق میں کہی جائیں۔
الْأَخْصَدُ: مضبوط مٹی ہوئی رسی۔ درخت جو

خشک ہو گیا ہو۔ مگر کھڑا ہو۔ مَوْتٌ حُصْدَاءُ
دِرْعٌ حُصْدَاءُ: تنگ حلقوں والی مضبوط
زرہ۔ شَجَرَةٌ حُصْدَاءُ: بہت پتوں والا
درخت۔

الْمُخْصَدُ: دارتی۔
حُصْرَةٌ (ن ض) حُصْرًا: بگلی ڈالنا۔ گھیرنا

..... الشَّيْءُ: پورا لے لینا۔ الْقَوْمُ: بفلان
بگلی ڈالنا۔ الْبَغْيُ: اونٹ کی پیٹھ پر گدیا
باندھنا۔

حُصْرٌ: قبض ہونا۔
حُصْرٌ (س) حُصْرًا: بچل کرنا۔ گھنٹو کرنے

میں عاجز ہونا۔ بِالسَّيْرِ: چھپانا۔
الرَّجُلُ: تنگ دل ہونا۔ عَنِ الشَّيْءِ: شرم
کر کے چھوڑ دینا۔ صَفَتْ (حُصْرٌ وَحُصْرٌ
وَحُصْرٌ)

حَاصِرُوا حُصْرًا وَمَحَاصِرَةٌ. الْعَدُوُّ:
محاصرہ کرنا۔ گھیر ڈال کر امداد کو روک دینا۔

أَخْصَرُهُ. عَنِ السَّفَرِ: روکنا۔ عَنِ الْمَرَضِ

او البول: مرض یا پیشاب کا کسی کو روک دینا۔
أُحْصِرُ: قبض ہو جاتا۔

إِنْحَصَرَ: تنگ ہونا۔

إِنْحَصَرَ: بَعِيرٌ: گدی یا باندھنا۔

الْحِصَارُ: گدی یا جو اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ محاصرہ کی جگہ۔

الْحَضْرُ وَالْحَضْرُ: قبض۔

الْحَصِيرُ: یوریا۔ چٹائی۔ آدمیوں کی قطار۔ مجلس۔ پہلو۔ کہا جاتا ہے "قَابَةُ عَسْرِيْنُ"

الْحَصِيرِيْنَ": چوڑے پہلوؤں والا جانور۔

موندھے سے کر تک کا گوشت۔ تنگ جگہ۔

قَيْدٌ: قَيْدٌ خَانَةٌ: قیدی۔ راستہ۔ لوگوں کی

نکاہوں سے اوجھل بادشاہ اور اسی سے ہے

"أَنْزَرَ حَصِيرُ الْحَصِيرِ فِي حَصِيرِ"

الْحَصِيرِ": یعنی قید خانہ کی چٹائی نے بادشاہ

کے پہلو میں نشان ڈال دیا۔ حِ حُضْرُ

وَأَحْصِرَةٌ.

الْحَصِيرَةُ: یوریا۔ چٹائی۔ گھوڑے کے

موندھے اور پہلو تک کا گوشت۔ حِ حُضْرُ

حُضْرُ.

المحضرة: للجمال: گدی یا۔

المحضير: شير۔

الحصيرى: چٹائی بیچنے والا۔

الحضور: تنگ دل۔ بچیل۔ خوفزدہ۔ کسی کام

سے رکنے والا۔ راز کا پوشیدہ رکھنے والا۔

یا وجود طاقت کے عورتوں کی طرف رغبت نہ

رکھنے والا۔

الحضرة: بچلی: بچل۔

حَضْرَمُ الْقَوْسِ: مضبوطی سے تانت کسنا۔

..... الحبل: مضبوط بنا۔ القربة: بھرتا

..... القلم: تر اشنا۔

تحضرم: بچیل و تنگ دل ہونا۔

الحضرم: کچا سبز انگور۔ کچا بچل واحد

(الحضرمه) سخت بچیل۔ پست قدم۔ ہر چیز کا

گھنیا۔ الحضرم: کنوئیں سے ڈول نکالنے کا

کانٹا۔

حُصْفٌ (ك) حُصْفَةٌ: عمدہ رائے اور

پختہ عقل والا ہونا۔ صفت (ح) حُصْفٌ
(و حُصْفٌ)

حُصْفٌ (س) حُصْفًا: خشک خارش والا ہونا۔

حُصْفَةٌ (ن) حُصْفًا: دور کرنا۔

أَحْصَفُ: تیز دوڑنا۔ صفت (مُحْصِفٌ

و مَحْصِفٌ و مَحْصَافٌ) أَحْصَفُهُ: دور

کرنا۔

الامر: مضبوطی سے کرنا۔ النسيج: گف

بنا۔ الحبل: مضبوط بنا۔ الحر فلان:

خشک خارش میں مبتلا کر دینا۔

إِنْحَصَفَ: الشئ: مضبوط ہونا۔

..... القوم: اکٹھا ہونا۔ الدهر عليه: سخت

ہونا۔ الحبل: مضبوط بنا۔

الحصيف: ہر بے عیب مضبوط چیز۔

الحصف: خشک خارش۔

حَصَلَ (ن) حُصُولًا و مَحْضُورًا.

الشئ: حاصل ہونا۔ ثابت ہونا۔ باقی رہنا۔

کہا جاتا ہے "حَصَلَ عَلَيْهِ مِنْ حَقِّي

كَمَا": اس کے اوپر میرے حق میں سے اتنا

باقی رہا۔ لَمْ كَمَا: واقع ہونا۔ عنده

كَمَا: پایا جانا۔ على الشئ: جمع کرنا اور

مالک ہونا۔ لى عليك كَمَا: ثابت

ہونا۔ واجب ہونا۔

حَصَلْتُ (س) حَصْلًا: الدابة: جانور کا

مٹنی یا ٹکڑی کھانے کی وجہ سے پیٹ کے درد

میں مبتلا ہونا۔

حَصَلَ: الشئ او العلم: حاصل کرنا۔

..... الكلام: نتیجہ اور مفاد کی جانب پھیر

دینا۔

..... الدين: جمع کرنا۔

تَحَصَّلَ: الشئ: اکٹھا ہونا۔ ثابت ہونا۔

..... من المنئلة كَمَا: کسی مسئلہ سے دوسرا

مسئلہ نکالا جانا۔

الحاصل: فال۔ کان سے نکالی ہوئی۔ لیس

چاندی۔ من كل شئ: بقیہ۔ عند

المحاسبين: حاصل ضرب۔ محزون

(موندے) اور اسی سے ہے "حاصل عین
الماء": پانی کی ٹینگی۔ ح حَوَاصِلُ

الحَصِيلُ: حاصل کیا ہوا مال۔ ایک قسم کی
نپاتا۔

الحَصِيلَةُ: تحصیل کا اسم۔ حاصل کردہ بقیہ۔

ح حِصَالِ: کہا جاتا ہے "ما حَصِيلَتِكَ

و ما حَصَالِكَ": تمہارا حاصل کردہ کیا

ہے۔

المَحْضُولُ: حاصل۔ کہا جاتا ہے "هَذَا

مَحْضُولٌ كَلَامُهُ": یہ اس کے کلام کا نتیجہ

ہے "و صَالِفَانِ و مَحْضُولٌ و لَامَعْقُولٌ":

یعنی فلاں کے لئے رائے و تیز نہیں ہے۔

حُضْنٌ (ك) حُصَانَةٌ: مضبوط و استوار

ہونا۔ صفت (حَصِينٌ)

حُضِنْتُ حُضْنَا و حُضْنَا و حُصَانَةُ الْمَرْأَةِ:

پاکدامن ہونا۔ صفت (حُصَانٌ) حِ حُضْنٌ

و حُصَانَاتٌ و (حَاصِنٌ و حَاصِنَةٌ) حِ

حُوَاصِنٌ و حَاصِنَاتٌ. و (حُصَاءٌ)

حُصْنَةٌ (ن ش) حُصْنًا: مضبوط جگہ میں

مختلط کرنا۔

حُصْنٌ و أَحْصَنُ. المكان: مضبوط بنا۔

أَحْصَنُ: المرأة: شادی کرنا۔ أَحْصَنَتْ

المرأة: شادی شدہ ہونا۔ پاک و امن ہونا۔

صفت (مُحْصِنَةٌ) بفتح الصاد. أَحْصَنُ

الرجل: شادی شدہ ہونا۔ صفت (مُحْصِنٌ)

تَحْصَنُ: اپنے لئے قلعہ بنا۔ تَحْصَنَتْ

المرأة: عقیقہ و پاکدامن ہونا۔ القوس:

اصیل ہونا۔

الحِصْنُ: محفوظ و بلند جگہ۔ قلعہ۔ تھمیراج

حُصُونٌ. و أَحْصَانٌ و حُصْنَةٌ.

الحَاصِنُ و الحَاصِنَةُ: پاکدامن یا شادی

شدہ عورتیں۔ ح حَوَاصِنٌ و حَاصِنَاتٌ.

الحَوَاصِنُ: حاملہ عورتیں۔

الحِصَانُ: موٹی۔

الحِصَانُ: اصیل گھوڑا۔ ہرگز گھوڑا۔ حِ

أَحْصَنَةٌ و حُصْنٌ.

الحَصِينُ. من الاماكن: مضبوط۔ کہا جاتا

ہے "بِزَعٍ حَصِينٍ" مضبوط زہرہ۔ و"حِصْنٍ حَصِينٍ" مضبوط قلعہ۔

أبو الحَصِينِ: مُضْعَرًا: لومزى۔

الْبِحْصِنُ: زَنْبِيلٌ - تَالَا - مَحَلٌ -

حَصَا (ن) حَصَوًا ٥: رَوَّكْنَا - مَنَعْنَا -

الْحَصَوَا: بَيْتٌ كَادِرٌ -

حَصَى (ض) حَصِيًا: الرَّجُلُ: كَنَكَرَى سَ مَارَتَا -

حُصِي: مُشَادَةٌ فِي بَطْنِي كِي بِيَارِي وَالَا بُونَا - صَفَت (مُحْصِي)

حَصِيَت (س) حَصَا: الْأَرْضُ: بَهت كَنَكَرَى وَالِي بُونَا - صَفَت (مُحْصَاة)

حَصَاةٌ تَحْصِيَةٌ: بِيَانَا -

أَحْصَى الشَّيْءَ: بَشَارَ كَرْنَا - كَبَاهَا جَاتَا هَذَا الْأَمْرَ لَا أَحْصِيَهُ: بِيَا يَسَا مَرَبَ حَسَّ كِي فِي طَاقَتِ نَبِيں رَكْتَا -

تَحْصِي: بِيَانَا -

الْحَصَى: كَنَكَرَى - وَاحِد (حَصَاة) مَحْ خَصِيَات وَحْصِي وَحْصِي وَطَرْقُ

الْحَصَى: كِبَاةَتِ أَوْ رَجَاوِ كِي عَمَالِ فِي سَ أَيْكِ عَمَلٍ - وَالْحَصَاةُ: عَدَدٌ - عَمَلٌ وَ

رَاةٌ - كَبَاهَا جَاتَا هَذَا "فَلَانٌ ثَابِتٌ الْحَصَاةُ": فُلَانٌ عَاقِلٌ هَ -

الْحَصَى: بِيَا تَقْتَدِرُ -

أَرْضٌ (حَصِيَّة) بَهت كَنَكَرَى وَالِي زَمِينِ - نَهْرٌ (حَصَوِي) بَهت كَنَكَرَى وَالِي نَدَى -

حَصَّةٌ (ن) حَصَا وَحْصَصَةٌ: عَلِي الْأَمْرَ: أَسَا مَاتَا - بَرَا حِجَّتَا كَرْنَا -

تَحْصَا: الْقَوْمُ: أَيْكِ دُوسَرَا كُو بَرَا حِجَّتَا كَرْنَا -

أَحْصَى نَفْسَهُ: ائِپَنَا آ پ سَ زِيَادَتِي كَا طَالِبٌ بُونَا -

الْحَصْصُ: بِيَز (اس كَا اسْتِمَالِ بَهت نَفْسِي كِي تَحْتِ فِيں بُونَا هَ) جِيسَا كَبَا جَاتَا هَ

"مَاعِنْدَهُ حَصْصٌ وَلَا بِنِطْصٌ": اس كِي پَاسِ كُچھ نَبِيں -

الْحَصَّ وَالْحَصِيْبِي وَالْحَصِيْبِي حَصَّ

كَا اسْمُ مَصْدَرٍ -

الْحُصْيَى: دَا مَن كُو كَا پَتْر -

الْحَصِيْبِيُّ: دَا مَن كُو - مَحْ أَحْصَاةٌ وَ حَصْصٌ پَسْتِ زَمِينِ أَوْ عِلْمِ بَيْتِ كِي اِصْطِلَاحِ

فِيں اس نَقْطَ كُو كَبْتَا هِيں جَوَاوِجِ كِي مَقَابِلِ هَ -

الْحَصِيْبِيَّةُ: شَيْءٌ مَمْلُوكٌ - تَم كَبْتَا هُو - "أَحْرَجْنَا إِلَيْهِ حَصِيْبِيَّةً وَنَبِيْبِيَّةً"

فِيں نَا اِپْنِي سَارِي مَلِكِيَّتِ اس كِي سَا مَنَّا كَر دِي -

الْحَصَوِيَّةُ: دُورِي - آگ -

حَصَبٌ (ض) حَصْبًا وَاحْصَبَ النَّازُ: اِبْدِ مَن وَ النَّازُ -

تَحْصَبُ: دُشَوَارِزَارِ قَرِيبِ كَا رَا سَتَا اِخْتِيَارِ كَرْنَا -

الْحَضْبُ وَالْحَضْبُ: كَمَا نِ كِي آوَا ز - دَا مَن كُو - مَحْ أَحْضَابُ -

حَضْبٌ (ن) حَضْبًا: النَّازُ: جَلَا نَا -

..... الشَّيْءُ فِي الْمَاءِ: دُزَابَانَا بَقْلَانِ: پُجْجَا ژَا نَا -

..... بِه الْأَرْضِ: پَنَكِ دِي نَا -

حَضَجٌ: الْكَلَامُ: كُو تَا هِي كَرْنَا -

أَحْضَجُ: الرَّجُلُ: خَفَرَا سَ بِيَزَكِ اِخْتِنَا -

الْحَضَجُ: دُورِ شَمْسِ جَسِ كِي پِيْتِي كُجْجِي بُونِي أَوْ پِيْتِ نَكَا بُونَا -

الْحَضَجُ: مَجْرِي بُونِي بُزِي مَشَكِ جَسِ كُو نِيكِ لَكَا دِي گِي بُو -

الْمِخْضَجُ وَالْمِخْضَجُ: آگِ بَلَا نَا كِي كَرِيلِي - الْمِخْضَجُ: كَبِيَزَا دُهُونَا كِي مَوْگَرِي -

إِمْرَاةٌ مِخْضَجٌ: كَشَادَا پِيْتِ وَالِي عَوْرَتِ - حَضَا جَرُ: حَضَا جَرُ: بِيُو كَا عِلْمِ حَمِيں هَ -

حَصْرٌ (ن) حَصْرًا وَحَصْرًا: مَوْجُودٌ بُونَا - (حَصْرًا) شَهْرِيں مَقِيمٌ بُونَا -

حَصْرٌ (س) وَحَصْرٌ (ن) حَصْرًا: الْمَجْلِسُ: حَاضِرٌ بُونَا عَنِ الْمَكَانِ: مَنَعْلٌ بُونَا - حَصْرُهُ الْأَمْرُ: دَلِ فِيں گُزَرْنَا

..... هِ الْمَوْتُ: مَوْتٌ كَا وَقْتِ آ نَا إِلَيْهِ:

آ نَا - كَبَاهَا جَاتَا هَ "حَضْرَتُ الْأَمْرِ بِخَيْرٍ" اِيعْنِي فِيں نَا دَرَسَتِ رَاةً كَا خِيَالِ كِي -

"وَحَضْرَتِ الصَّلَاةِ" نَمَا زَا وَقْتِ آ گِيَا - حُضْرٌ: مَوْتٌ وَاقِعٌ بُونَا - صَفَت (مَحْضُورٌ)

حَضْرَةٌ وَحَضْرَةٌ وَاحْضَرَةٌ: حَاضِرٌ كَرْنَا - كَبَا جَاتَا هَ "أَحْضَرَةُ الشَّيْءِ" اس كِي پَاسِ بِيَزِ كُو لَا يَا - "أَحْضَرُ الْفَرَسُ" تَبِيَزِ دُورُ نَا -

حَاضِرَةٌ مَحَاضِرَةٌ وَحَضَارًا: سَا تَه دُورُ نَا - مَقَابِلَا كَرْنَا - جُو جَوَابِ كُجْجِي فِيں آ نَا دِي نَا -

حَاضِرُ الْخَوَابِ: حَاضِرٌ جَوَابِ بُونَا - تَحْضَرُ وَاحْضَرُ: حَاضِرٌ بُونَا - تَحْضَرُ وَاحْضَرُ الرَّجُلُ: حَاضِرٌ كَرْنَا - اِحْتَضَرُ الْفَرَسُ: دُورُ نَا - تَحْضَرُ الْبَدْوِيُّ: شَهْرِي جِي سَا بِي نَا -

تَحْضَرَةُ الْهَمِّ: فَمِ لَاقِ بُونَا - أَحْضَرُ: قَرِيبُ الْمَرْگِ بُونَا - اِسْتَحْضَرُ الشَّيْءَ: حَاضِرٌ كَرْنَا - حَاضِرٌ بُونَا كُو كَبْنَا الْفَرَسُ: دُورُ نَا -

الْحَضْرُ وَالْحَضْرَةُ وَالْحَاضِرَةُ: شَهْرٌ أَوْ مَقَامَاتٌ مَسْكُونَةٌ - يَهِ السَّبْدُ وَالْبَدْوَاةُ وَالْبَادِيَّةُ كِي خِلَافِ هَ - كَبَاهَا جَاتَا هَ "هَذَا مِنْ كَلَامِ الْحَاضِرَةِ وَلَمْ اِزِ الْبَادِي لَفْظًا وَبِهِ وَلَا عَرَفُوهُ": يَهِ شَهْرُ كِي رَهْتَا وَالْوَلِ كِي كُتْلُو هَ بِي دِي بَاتِ كِي رَهْتَا وَالْوَلِ كُو نَبِيں دِي كَحَا كَرَا نَبِيں نَا اس كَا تَلْفِظُ كِيَا بُو

أُورُ دُورَا سَا جَانَتَا هِيں - الْحَضْرَةُ وَالْحَضْرَةُ وَالْحَضْرَةُ: شَهْرِي كِي اِقَامَتِ - الْحَضْرُ وَالْحَضْرَةُ: مَوْجُودِي - پَبِلُو -

نَزْدِي كِي - مَكَانِ كِي سَا مَنَّا كَا مَحْنِ - حَضْرَتِ كَا اِطْلَاقِ بَرَا يَهِي بُزَا آ دِي پَر بُونَا هَ جَسِ كِي پَاسِ كُو كِ حَاضِرٌ بُو تَا هِيں جِيسَا الْحَضْرَةُ الْعَالِيَةُ تَامَرُ بَكْدَا: جَنَابِ عَالِي فُلَانِ كَامِ كَا عِلْمِ دِي تَا هِيں اُورِ كَبَا جَاتَا هَ "كَلِمَتُهُ بِحَضْرَةِ فُلَانٍ": فِيں نَا فُلَانِ كِي مَوْجُودِي فِيں اس سَا كُتْلُو كِي -

الحظ: نرم و چینی پیٹھ والا۔

المنحط والمنحطه: اترنے کی جگہ۔

نمہرنے کی جگہ۔ منحط ومنحطات۔

المنحطه: ریلوے اسٹیشن۔ (جدید)

المنحط والمنحطه: ککڑی یا لوہا جو چیز سے

پر نقش کرنے کے لئے بنایا گیا ہو۔

المنحطوط: منیع ادیم محفوظ: پالش کیا

ہوا چمڑہ۔ سيف منحطوط: تیز کی ہوئی

تلوار۔

حطارف: حطاف الارض بہ: چھپاڑنا۔

..... بہ عن كذا: دفع کرنا۔ بنانا۔ جھکانا۔

..... بالشئ: پھینکانا۔

الحطينة: بد صورت پست قدمرد۔

الحطء: برتن کا بقیہ پانی۔ کہا جاتا ہے

"حطء من تمر": پیٹھ پر اٹھانے کے لائق

کھجوریں۔

الحطی: من الناس: ذلیل آدمی۔ کہا جاتا

ہے "هو حطی بطنی" وہ ذلیل ہے۔ بطنی:

کافلتا تابع ہے۔

حطب (ض) حطبا و حطبا و حطبا:

ککڑی چننا۔ صفت (حطاب) کہا جاتا ہے

"هو حطاب لیل" وہ گفتگو میں رطب و یابس

ملانے والا ہے۔

حطبة: ککڑی لانا۔

حطب و حطبا: المسکن: بہت ککڑیوں

والی جگہ ہونا۔ صفت (حطیب) مؤنث

(حطیبة)

حطب: بہ و علیہ: چغلی کھانا۔ تہمت لگانا۔

کہا جاتا ہے "حطب فی جلدہ" اس نے

اس کی مدد و اعانت کی۔ "حطب علیہ

بغیر" یعنی وہ اس کے پاس بھلائی کولایا۔

أحطب و استحطب: الحرم: انگوڑ کی تیل

سے شائیں تراشنے کا وقت آنا۔

الحط: ابصر من أحطاب: ایک نگرے

کو حطبة: کہتے ہیں۔

الحطب مؤنث حطبة و (الأحطاب)

مؤنث حطباء: من حطب: بہت دبا۔

الحطاب: ککڑی چننے والا۔ ککڑا ہارا۔

الحطوبه: ککڑی کا چھٹھا۔

الحطابہ: الحطاب: کامونٹ۔ ککڑی چننے

والی۔

المحطب: نبیا۔

..... القوس: تانت چرخانا۔

حطمة (ض) حطما و حطمة: توڑنا۔

حطم (س) حطما: بڑی عمرو والا ہونا۔

تحطم و انحطم: ٹوٹنا۔ کہا جاتا ہے

"تحطم الرجل غیظا": وہ غصہ سے چور ہو

گیا۔ "وانحطم الناس علیہ": لوگوں نے

اس پر بھیر کی۔

الحطم: بے رحم چرواہا (..... و الحطم)

بہت کھانے۔ سب کچھ چٹ کر جانے والا۔

الحطمة والحطامة والحطام: سوکھی چیز

کے ٹکڑے۔ حطام الدنيا: دنیاوی ساز

وسمان۔ حطام البيض: انڈے کا چھٹکا۔

الحطام والحطوم والمحطم: شیر۔ کہا

جاتا ہے "ریح حطوم": بہت تیز ہوا۔

الحاطوم: بخم کرنے والی دولا و الحطمة

و الحطمة: سخت سال۔

الحطمة: تیز آگ۔ دوزخ۔ بہت آذنت

و بکریاں۔

الحطیم: کعبہ کے کنارے کی دیوار۔ وہ جگہ

جو رکن اور زعم اور مقام ابراہیم کے

درمیان ہے۔

الحطیبات: زر ہیں جو ایک شخص حطمة:

نامی کی جانب منسوب ہیں اور بقول بعض

تلواروں کو توڑ دینے والی زر ہیں اور بعضوں

کے نزدیک ایسی زر ہیں جو بیماری اور چوڑی

ہوں۔

حظ (س) حطاً و حطاً و حطاً: نصیب

والا ہونا۔ صفت (حطی و حطیظ

و محطوظ)

الحظ: حصہ۔ بہرہ۔ نصیب۔ حصہ خیر

و فضل۔ کبھی حصہ شیر کے لئے بھی بولا جاتا

ہے۔ دولت مندی و نیک بختی۔ من حطوظ

و حطاط و حطاط.

حطب (ن) حطوبنا و حطب (س)

حطبنا: الرجل: موٹا ہونا۔ پست قدم اور

بڑے پیٹ والا ہونا۔ صفت (حطب) مؤنث

حطبة.

الحطاب: بڑے پیٹ والا پست قدم

أجد۔ حطیل۔ حطخو۔

حظرة (ض) حظرا الشئ و حظر علیہ

الشئ: منع کرنا۔ روکنا..... الشئ: محفوظ

کرنا۔ (اس وجہ سے کہ گویا غیر سے روک

دیا) الحواشی: بازہ میں بند کرنا۔

(واحتظر) اپنے لئے بازہ بنانا۔ احتظر بہ:

بچنا۔

أحظر: دوسرے کے لئے بازہ بنانا۔

حظور: بمعنی حظور: تشدید مبالغہ کے لئے

ہے۔

الحظور: درخت کی شاخ کہ جس سے بازہ

بنائیں۔ ترکانا۔ کہا جاتا ہے "وقع فی

الحظور الرطب": یعنی وہ ایسی چیز میں پھنس

گیا جس کی اسے طاقت نہیں۔ "و اوقد فی

الحظور الرطب" اس نے چغل خوری کی۔

"و حاء بالحظور الرطب" وہ بہت مال لایا

بہت بھوٹ بولا۔

الحظيرة: من حطائر (و الحظائر و الحظائر)

برہہ چیز جو تہارے اور دوسرے کے درمیان

میں حائل ہو۔ بازہ۔ "و انہ لسنجد

الحظيرة": وہ حیل و بے فیض ہے۔ حظيرة

القدس: جنت۔

المحظور: روکا ہوا۔ حرام۔ ناجائز۔ کہا

جاتا ہے "المحظورات تُبیح

المحظورات."

حظرب: القوس: بختی سے تانت

چرخانا..... الحبل: مضبوط بنانا..... السماء:

بھرتا۔

تحظرب: بھرجانا۔

حظیل (ن ض) حظلاً و حظلاً

و حظلاً: علیہ: حرکت اور تصرف سے

روکن۔ (حظلاًناً) المشی: ٹھہر ٹھہر کر چلنا اور کہا جاتا ہے "ہو بہ حظلاً حظلاًناً" وہ غضبناک کی چال چلتا ہے۔

حظّل (س)۔ حظلاً البعیر: بہت اندر این کھاتا۔ صفت حظّل: جمع حظالی۔

أحظّل. المكان: بہت اندر این والی جگہ ہونا۔

الحظیل والحظال والحظول: بچل کی وجہ سے اپنے اہل و عیال پر تنگی کرنے والا۔ حظا (ن) حظوا: آہستہ چلنا۔

حظی (س) حظوة وحظوة وحظوة بالرزق: حصہ پانا۔ (.....) واحتظی: رتبہ والا ہونا۔ نصیب والا ہونا۔

أخطأ: صاحب رتبہ بنانا۔ أخطأ بالمال: مال کا حصہ دینا۔ أخطأ علی فلان: فضیلت دینا۔

الحظو: مہم۔ حصہ۔ الحظی: صاحب رتبہ۔

الحظوة: چھوٹا تیر۔ درخت کی جڑ کی شاخ جو ابھی تخت نہ ہوئی ہو۔ ح حظاء وخطوات۔

الحظوة: حصہ۔ مرتبہ۔ ح حظاً وحظاء۔ الحظوة والحظوة: مہم۔ مرتبہ۔

الحظی: وہ شخص جس سے لوگ محبت کریں اور اس کے مرتبہ کو بلند کریں۔

الحظیة: الحظی: کاموث۔ امیر یا بادشاہ کی پیاری لونڈی۔ ح حظایا۔

الحظیاً: آہستہ چال۔ کہا جاتا ہے "مشی الحظیاً": وہ آہستہ چال چلا۔

الحظیة: بے پھل کا چھوٹا تیر۔ الحظی: جوں۔ واحد (حظاة)

الحظی: حصہ۔ ح حظ و ح حظاً۔ ح حفت (ن) حفتاً وحفتاً: الشی: چھٹا

أثارنا..... اللحية: مونڈنا یا کترنا۔ الوجه: بال دور کرنا۔

حفت (ن) حفتاً: القوم الرجل وبہ وحوالہ: گھیرنا۔ حفتہ: بکذا: احاطہ کر لینا۔

حفتہ الحاجة: ضرورت لاحق ہونا۔ حفت (ن) حفتیفاً: الشجرة او الحیة: سرسراہٹ ہونا۔ حفت الارض حفتوفاً: خشک ہونا..... سمعہ: بہرا ہونا..... اللحية: پر اگندہ ہونا۔ حفت الرجل: تیز نظر بدلگانے والا ہونا۔

أحفت اخفافاً: راسہ: مدت تک تیل نہ لگانا..... الرجل: برائی سے یاد کرنا۔

حفت. القوم حوالہ وحفتوفاً: احاطہ کرنا۔ گھیرنا..... الرجل: مبتلائے مصیبت و کم مال والا ہونا..... ہکذا: احاطہ کرنا۔

أحفت. القوم یہ: احاطہ کرنا۔ النسب: کاشنا..... الشی: چھٹا اُتارنا۔ کہا جاتا ہے "أحفت جميع ما فی القدر": اس نے ہانڈی میں کاسب کچھ کھالیا۔

استحفت. المال: سارا لے لینا۔ الحاف: تیز نظر بدلگانے والا۔ مسویق حافت: خشک ستو۔ خیر حافت: سوکھی روٹی۔

بغیر سامن کے روٹی کہا جاتا ہے "مسالہ حافت ولازاق": اس کے لئے کوئی نہیں جو اس کے امور کی دیکھ بھال کرے اور اس کی خدمت کرے۔

الحصاف: مہم۔ جانب۔ نشان قدم۔ کہا جاتا ہے "جاء علی حصافہ": وہ اس کے نشان قدم پر آیا۔ گنچے کے سر کے گرد گرد کے بال۔ ح اصحفة: کہا جاتا ہے "نحمان الطعام حصاف ما اکلوا": کھانا اتنا ہی تھا جتنا انہوں نے کھالیا۔

الحفت: مہم۔ (.....) والحفت (گوشہ۔ نشان قدم۔ کہا جاتا ہے "جاء علی حفتہ او علی حفتہ" وہ اس کے نشان قدم پر آیا۔ "وفلان حفت علی نفسه": الحصف: مال کی کمی۔ کہا جاتا ہے "طعام حفت": تھوڑا کھانا۔ "ومعیشة حفت": تنگ زندگی۔

الحفت: رانچھ۔ دھڑکی۔ الحصافة: گرے ہوئے بال وغیرہ۔ بھوسہ کا

بقیہ۔ الحفان: شتر مرغ کے چوزے۔ واحد (حفانہ) نوکر چا کر۔ بھرا ہوا برتن۔ کہا جاتا ہے "إنشاء حفان" بھرا ہوا برتن۔ و حفان النعام: شتر مرغ کے پر۔

الحفنة: پوری فیاضی۔ بچنے وقت کپڑا لینے کی کڑی۔ اونٹ کی مقدار خوراک۔ الحفنة: گڑھے کے کنارے کی زمین (مولدہ) الحسفنة: عورتوں کی پاگلی۔ تخت رواں۔ اسٹریچر۔

المحفوف: مہم۔ محتاج۔ الحفیف: سائب کے چلنے کی سرسراہٹ۔ حفاہ (ف) حفا: پچھاڑنا۔

الحفأ: ایک قسم کا پودہ جس کی چھال کو قدما مصر کتابت کے لئے استعمال کرتے تھے۔ واحد حفأة۔

حفتة (ن) حفتنا: بلاک کرنا۔ گردن توڑ دینا۔ حفت الشی: کوننا۔

الحفث والحفث: ح الحفثات. (والحفثات) ح حفافیث: ایک قسم کا بڑا سانپ جس میں زہر نہیں ہوتا۔ الحفث الحفث: الحفث: آنت کا ایک حصہ جس میں بہت خانے ہوتے ہیں۔

الشی: پرندے کے اڑنے یا تیر کے پھینکنے یا آگ کی بھڑک میں آواز ہونا۔ حفد (ض) حفذا وحفودا وحفداناً واحفد. فی العمل: جلدی کرنا۔ وحفدة: خدمت کرنا۔

أحفد. الظلم: تیز دوڑنا۔ دوڑنے پر برا بھینتہ کرنا۔ الحفید: پوتا۔ ح حفداء۔ الحفاہد: خادم۔ تابع۔ مددگار۔ پوتا۔ ح حفدو حفدة: الحفدة: نقش و نگار کرنے والا۔

المحفد: اصل۔ کوبان کی جڑ۔ کپڑے کا نقش و نگار۔ ح محفاید (.....) والمحفد: جانوروں کو بھوسہ کھلانے کا برتن۔ المحفد:

پیمانہ کرنے کا پیمانہ۔ کپڑے کا کنارہ۔

المُخْفُودُ: مخدوم۔

المُخْتَفِدُ: من السيف: جلدی کاٹنے والی تلوار۔

حَفْرٌ (ض) حَفْرًا وَاحْتَفَرَ: گڑھا کھودنا

حَفْرَ الطَّرِيقِ: چل کر نشان ڈالنا۔ حَفْرَ الشَّيْءِ: شے تک معلوم کرنا۔ العنز: ڈوبلی کرنا۔

حَفْرٌ (ض) حَفْرًا وَحَفِيرٌ (س) حَفْرًا وَحَفِيرٌ: زردی کی وجہ سے دانتوں کی جڑوں کا خراب ہونا۔

أَحْفَرُ: الصبِيُّ: دودھ کے دانت گرانا۔

..... ہ بٹرا: کھودنے میں مدد دینا۔

حَافِرٌ: السَّرْبُوعُ: جنگلی جو ہے کا اپنے ڈھونڈنے والوں پر سوراخ کو ملتیس کر دینا اور اسی سے مثل ہے "فَلَانٌ أَرْوَعٌ مِّنْ يَّرْبُوعٍ مُحَافِرٍ"۔

تَحْفَرُ: السبيلُ: گڑھے ڈالنا۔

اسْتَحْفَرَ: السهْرُ: کھودنے کا وقت قریب پہنچنا۔

الحفْر والحفر: کشادہ کنواں۔ دانتوں کی زردی۔ الحفر: مٹی جو کھودی ہوئی جگہ سے نکالی جائے۔ حِ حَفَارٌ وَحِ حَافِيرٌ:

الحفيرة حِ حَفْرٌ وَ(الحفيرة) حِ حَفَائِرٌ وَ(الحفيرة) گڑھا۔ قبر۔

الحافِر: قاف: جانور کا کھر۔ حِ حَوَافِرٌ اور "السفد عند الحافر": کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کسی جانور کو خریدو تو بغیر دام ادا کئے ہوئے وہاں سے جدا مت ہو۔

الحافرة: الحافر: کامونٹ۔ کھودی ہوئی زمین۔ ابتدائی حالت۔ کہا جاتا ہے "الآن قد نعتسف وقد كان نجيباً في الحافرة":

اب وہ راہ راست سے ہٹ گیا ہے ابتداء میں شریف تھا۔ کسی چیز کی طرف لوٹنا اور اسی سے ہے "رجع على حافرة اوفى

حافرة": یعنی وہ اسی راستے سے لوٹا بعدھر سے آیا تھا۔ یا ایک کام میں تھا پھر اس سے

علیحدہ ہو گیا اور پھر دوبارہ اسی میں مبتلا ہو گیا۔ "رجع في حافرة" یعنی بوڑھا ہو گیا۔ "والتقى القوم فسأفتلوا عند الحافرة" یعنی قوم نے مدبھیڑ ہوتے ہی جنگ کی۔

السجفري: ایک قسم کی ریگستانی نباتات جو ہمیشہ سبز رہتی ہے۔

الحقار: کھودنے والا۔ عموماً گورکن کے لئے مستعمل ہے۔

المخفر والمخفرة والمخفار: کدال۔

المخفور: منع۔ زرد دانتوں والا۔

حَفْرَةٌ (ض) حَفْرًا: پیچھے سے دھکا دینا۔

کہا جاتا ہے "حَفْرَ الليل النهار": یعنی رات نے دن کو بٹایا۔ "وَحَفْرَنا وَعَلَيْنَا السَّخِيلِ وَالرَّكَابِ" انہوں نے ہمارے اوپر گھوڑوں اور سواروں کو جمع کر دیا..... ہ:

بالرمح: نیزہ مارنا..... ہ عن كذا: دور کرانا اور جلدی کرانا..... المرأة: جماع کرنا۔

حَافِرَةٌ: زانو یا نویشٹا اور قریب ہونا۔

تَحْفَرُوْا وَاحْتَفَرُوا: زانو پر یا سرین کے بل بیٹھنا۔ کودنے کے لئے آمادہ ہونا۔ کہا جاتا ہے "اِحْتَفَرُوا فِي مَشِيهِ": اس نے چلنے میں کوشش کی۔

الحفْر: مدت۔ کہا جاتا ہے "جَعَلْتُ بِنِي وَبِنِيكَ حَفْرًا": میں نے اپنے اور تمہارے درمیان مدت مقرر کی۔

الحفوز: من القبي: تیر کو بہت تیزی سے پھینکنے والی کمان۔

حَفْسٌ (ض) حَفْسًا: کھانا۔

تَحْيِفَسٌ: بستر پر تملانا۔

الحيفس والحيفس: مونا جس سے کسی چیز کی امید نہ ہو۔ بے وجہ غصہ اور راضی ہونے والا۔ الحيفس: غضبناک۔

حَفْسَةٌ (ض) حَفْسًا: چھلکا اٹارنا۔

حَفْسٌ السبيلُ الوادي: بھردینا۔ الحطر الارض: روئیدگی ظاہر کرنا..... فلانًا: دھکا دینا۔

ہے "نعم حَفْسُ العِلمِ هذا" یہ علم کا جاننے

..... السبيلُ: ایک جگہ میں سارا پانی جمع ہوتا۔

..... القومُ عليه: اکٹھا ہونا۔ حَفْسٌ فِي الامر: کوشش کرنا..... القومُ: بار بار دوڑنا اور ہر مرتبہ اچھی طرح سے دوڑنا۔

حَفْسٌ (س) حَفْسًا: السحابة: یکبارگی زور کی پوچھا برسرا کر رک جانا۔

حَفْسٌ وَتَحْفَسُ: الرجلُ: جموپیڑے میں رہنا۔

الحافسة: پانی پینے کی جگہ۔ حِ حَافِسَاتٌ وَحَوَافِسُ:

الحفش: ٹوکری۔ جموپیڑا۔ بالوں کا بنا ہوا خیمہ۔ کوہان۔ بوسیدہ چیز۔ حِ حَافِشٌ وَحَفَاشٌ: حَفَاشُ البَيْتِ: گھر کی معمولی چیزیں۔ حَفَاشُ الارضِ: سہمی۔ جنگلی چوہا۔ گوہ وغیرہ۔ الحفش: اندام نہانی۔

حَفْصٌ (ض) حَفْصًا: الشئُ: جمع کرنا۔

..... الشئُ من يده: ڈال دینا۔ گرا دینا۔

الحفاصة: جمع کی ہوئی چیز۔

الحفص: مصل۔ چیزے کا تھیلا۔ چھوٹا گھر۔ شیر کا بچہ۔ حِ حَفَاصٌ وَحَفُوصٌ:

الحفص: بھرد وغیرہ کی کھٹلی۔

المحفصة: چیزے کا تھیلا۔

الحفصة: بوجو۔ (الحفصة وأم حفصة) ایک قسم کا گدھ۔ (أم حفصة) مرغی۔

حَفْضٌ (ن) حَفْضًا: العود: موڑنا (وَحَفْضٌ) الشئُ: ہاتھ سے گرانہ.....

الارضُ: خشک کرنا..... القومُ: اپنے پیچھے چھوڑ دینا..... اللہ عنه: تخفیف کرنا۔

الحفص: گھر کا سامان جو بار کرنے کے لئے تیار کیا گیا ہو۔ گھر کا سامان اٹھانے والا۔ اونٹ۔ بورا۔ جس میں قوم کا سامان ہو۔ خیمہ کا ستون۔ بالوں کا خیمہ۔ کمزور

اونٹ۔ کہا جاتا ہے "انه لحفص علم": وہ کم علم ہے (اس قول میں علم کو حَفْضٌ سے قلت کی بنا پر تشبیہ دی گئی ہے) اور کہا جاتا ہے "نعم حَفْضُ العِلمِ هذا" یہ علم کا جاننے

والا اچھا ہے۔ ج ا ح فاض و ج فاض۔
 حَفِظَ (س) جَفِظًا. الشَّيْءُ: شائع ہونے سے بچانا۔ خراب و خستہ ہونا سے بچانا۔
 الكتاب: زبانی یاد کرنا۔ السر: چھپانا۔
 المال: حفاظت کرنا۔ نگہبانی کرنا۔
 حَفِظَهُ. الكتاب: یاد کرانا۔
 حافظَةُ جَفَاطًا و مَحَافِظَةً. علی الامر: مداومت کرنا۔ نگہبانی کرنا۔ عنه: مدافعت کرنا۔ بنانا۔ کہا جاتا ہے "انہ لَدُوْ جَفَاطٍ و دُوْ عَافِظَةٍ": اس شخص کے حق میں جس کے اندر خودداری ہو۔
 اَحْفَظُهُ: غصہ دلانا۔
 اِحْتَفَظَ: غضبناک ہونا۔ بہ: یاد کرنا۔
 الشَّيْءُ و بہ لنفسه: اپنے لئے خاص کرنا۔
 تَحْفَظُ. عنه و منه: بچنا۔ بہ: کتاب: تھوڑا تھوڑا یاد کرنا۔
 اِسْتَحْفَظَهُ. مالا اَوْ سِرًّا: محفوظ رکھنے کو کہنا۔
 الحِفْظُ: بچاؤ۔ یاد۔ ہوشیاری۔
 الحَفِیْظَةُ: نگہبانی۔ تعویذ۔ جس کو بچنے کے گلے وغیرہ میں ڈالتے ہیں۔ ج ح ف ا ی ن ط۔
 اهل الحفایظ: محارم کی نگہبانی کرنے والے۔
 الحَفِیْظَةُ و الحِفْظَةُ: قابل حفاظت چیز کے لئے غضب و حمیت۔
 الحَافِظُ: فا۔ کسی چیز پر مقرر۔ الطریق الحافظ: واضح سیدھا راستہ جو ختم نہ ہو۔ کہا جاتا ہے "رجُلٌ حَافِظُ الْعَیْنِ": مرد بیدار چشم جس پر نیند کا نلب نہ ہو۔ ج ح ف ا ی ن ط و حَفِظَةُ و حَافِظُوْنَ۔
 الحَافِظُ و الحَفِیْظُ. من الملائكة: نیکی بدری لکھنے والا فرشتہ۔ الحَفِیْظُ: محفوظ نیز اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے۔
 الحَافِظَةُ. الحافظ: کاموث۔ یادداشت کی قوت۔
 المَحْفِیْظَةُ: غصہ دلانے والا معاملہ۔ ج

مُحْفِظَاتُ. الْمُحْفِظَاتُ: مہلتیں۔
 حَفَلَ (ض) حَفَلًا و حَفُولًا و حَفِیلًا الماء: کثرت سے جمع ہونا۔ القوم: اکٹھا ہونا۔ الدمع: بہت ہونا۔ الوادی بالسیل: لبالب بھرنا۔ السماء: بہت برسانا۔ الشَّيْءُ: جھٹل کرنا۔ کہا جاتا ہے "ما حَفَلَهُ و ما حَفَلَ بِهِ" اس نے اس کی پروا نہیں کی۔
 حَفَلَهُ: اچھی طرح جمع کرنا۔ زینت دینا۔ الشَّيْءُ: جھٹل کرنا۔ الناقة: جھن میں دودھ جمع ہونے کے لئے چھوڑ دینا۔
 تَحَفَّلَ. اللبن: اکٹھا ہونا۔ فلان: آراستہ ہونا۔ المجلس: مجلس کا بھر جانا۔
 اِحْتَفَلَ. القوم: جمع ہونا۔ المجلس بالناس: بھرنا۔ الوادی بالسیل: لبالب بھرنا۔ الطریق: واضح ہونا۔ الشَّيْءُ: روشن ہونا۔ بالامر: اچھی طرح انتظام کرنا۔ فی الامر: مبالغہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "ما احتفل به" اس نے اس کی پروا نہیں کی۔
 الحَافِلُ: فا۔ ضرع حافل: بھرا ہوا جھن۔
 واد حافل: سیلاب سے بھری ہوئی وادی۔
 جمع حافل: بڑی جماعت۔ ناقة اوشاة حافل: بہت دودھ والی اونٹنی یا بکری۔ ج ح ف ل و ح و ا ف ل۔
 الحَافِلَةُ. الحافل: کاموث۔ ذار حافِلَةُ: ہرا بھرا گھر۔ سُوْقُ حَافِلَةُ: بھرا ہوا بازار۔
 الحَفَلُ: بچاؤ۔ جماعت۔ کہا جاتا ہے "عنده حَفَلٌ مِنَ النَّاسِ": اس کے پاس لوگوں کی جماعت ہے۔ جمع حَفَلٌ: بڑی جماعت۔
 الحَفِیْلُ: بہت۔ جیسے جمع "حَفِیْلٌ" بہت جماعت "مَسْکَانٌ حَفِیْلٌ": بھری ہوئی جگہ۔ "رَجُلٌ حَفِیْلٌ": ہر چیز میں مبالغہ کرنے والا۔
 الحَفُولُ: خوبصورت عورت۔ ج ح ف ا ل۔
 الحَفَالُ: بڑی جماعت۔ جمع شدہ بہت دودھ۔ رومی گھوڑ۔

الحَفَالَةُ: ہر گھٹیا چیز۔ فرومایہ لوگ۔
 حَفَالَةُ الطعام: کھانے میں سے جو نکلے اور پھینک دیا جائے۔ حَفَالَةُ اللبن: جھاگ۔
 الحَفَلَةُ. اسم المرأة اور کہا جاتا ہے "اخذ للامر حَفَلَتَهُ": اس نے معاملہ میں کوشش کی۔ و ج ا ل و ا ب ح ف ل ی ت ہ م و ی ح ف ل ی ت ہ م " وہ سب کے سب آئے۔
 الحَفَلِيُّ: عام دعوت۔
 المَحْفَلُ: مجلس۔ ج ح ف ا ف ل (والمحتفل) جمع ہونے کی جگہ۔ مَحْفَلُ الامر: معاملہ کا بڑا حصہ۔
 الحَفَلِيُّ: کمزور۔ بے وقوف۔
 حَفَنَ (ن) حَفَنًا. الشَّيْءُ: لپ بھر لینا۔ لہ: لپ بھر دینا۔
 اِحْفَنَ. الشجرة: جڑ سے اکھیڑنا۔ الشَّيْءُ: لپ بھر لینا۔ من الشَّيْءِ: بہت لینا۔
 السرجل: دونوں ہاتھ زانو کے نیچے ڈال کر اٹھانا۔
 الحَفْنَةُ و الحَفْنَةُ: لپ بھر۔ الحَفْنَةُ: گڑھا۔ ج ح ف ن۔
 حَفَا (ن) حَفَاً. فلانا: دینا۔ حَفَاهُ من الشَّيْءِ: روکنا۔ منع کرنا۔ حَفَاهُ اللہُ بہ: عزت دینا۔ حَفَا السُّرُقُ: آہستہ آہستہ بادل کے اطراف میں چمکانا۔ شَارِبُهُ: خوب اچھی طرح موٹنا۔
 حَفِي (س) حَفَاً: زیادہ چلنے سے پاؤں گھسنا۔ ننگے پاؤں چلنا۔ صفت (حف) و حَافٍ) ج حَفَاةً القوس: گھسے ہوئے کھروالا ہونا۔ جَفَاةً و حَفَاةً و حِقَايَةً و تَحْفَايَةً و احتفئی بہ: عزت و اکرام کرنے میں مبالغہ کرنا۔ کسی کے ساتھ خوشی ظاہر کرنے میں مبالغہ کرنا۔ حَفِيّ: عنہ: حالت بہت پوچھنا۔
 حَافَاهُ. مُحَافَاةً: گفتگو کرنے میں جھگڑا کرنا۔
 اَحْفَى اِحْفَاءً: گھسے ہوئے گھروالے جانور کا مالک ہونا۔ السُّؤَالُ: بار بار دہرانا۔:

اصرار کرنا۔ خبر کی تفتیش پر برا بیچنے کرنا۔
إليه في الوصية: مبالغہ کرنا۔ بہ: عیب
لگانا۔ شائبہ: کترنے میں مبالغہ کرنا۔

تحقق في الشيء: کوشش کرنا۔ لہ: بہت
اکرام کرنا۔

تحافيا الى السلطان: فیصلہ کے لئے
جانا۔

إحسفي: جتنے پاؤں چلنا۔ جوتا اتارنا۔
النبقل: چھوٹی ہونے کی وجہ سے اٹھیوں سے
اُکھیرنا۔ القوم المرعى: چراگاہ میں کچھ
نہ چھوڑنا۔

إسحفني: ہ عن کذا: کسی شخص سے کسی چیز
کے متعلق مبالغہ سے دریافت کرنا۔

الحففاء: کھر یا پاؤں کی گھسائی۔
الحفافية والحفوة والحفية: بمعنی الحففاء۔

الحفصی: کسی چیز کے متعلق پوری طرح علم
رکھنے والا۔ عزت و اکرام و اظہار خوشی میں
مبالغہ کرنے والا۔ کسی شخص کے حالات کے
متعلق بہت سوال کرنے والا۔ سوال کرنے
میں بہت اصرار کرنے والا۔ ج حُفُوا۔

حقه (ن) حقا: حق میں غالب ہونا۔
حق الامر: ثابت کرنا۔ الخیر: حقیقت
پر مطلع ہونا۔ العقدة: باندھنا۔ الرجل:

وسط سر یا مونڈھے کے کڑھے پر مارنا۔
الطریق: وسط راستہ چلنا۔

حق (ض) حقا: علیہ ان يفعل كذا:
واجب ہونا۔ کہا جاتا ہے "حق لك ان تفعل
كذا وحقق ان تفعل كذا" یعنی اس کا کرنا
تمہارے لائق ہے اور تم اس کے کرنے کے لائق
ہو۔

حق (ن ض) حقا وحقه: الامر: ثابت و
واجب ہونا۔ الحاجة: سخت پیش آنا۔

حق (س) حقا: الفرس: دوڑنے میں
اگلی ٹانگوں کی جگہ پچھلے پاؤں رکھنا۔ صفت
(أحق)

حقيقه: تاکید کرنا۔ واجب کرنا۔ حقيق
القول او الظن: تہدید کرنا۔

حاقه مُحاقفة وحقافا: فی الامر: جھگڑا
کرنا۔ اپنے حق دار ہونے کا دعویٰ کرنا۔ کہا
جاتا ہے "إن له كذا وكذا لا يُحقاقه فيه
أخذ" یعنی اس کے لئے ایسا ہے اور ایسا ہے
کوئی اس بارے میں اس سے جھگڑائیں کر
سکتا۔

أحق: حق کہنا۔ أحقه: حق میں غالب آنا
أحق الامر: ضروری و واجب ٹھہرانا۔ کہا جاتا
ہے "أحق عليه القضاء" یعنی قضاء کو اس
کے ذمہ واجب کیا۔ احق السرفية: تیر
اندازی کے وقت ہی مار ڈالنا۔

تحقق الخیر: ثابت ہونا۔ الرجل
الامر: یقین کرنا۔

تحاقا: یا ہم جھگڑنا اور فیصلہ کے لئے جانا۔
أحق الرباط: بندھ جانا۔
أحق الفرس: ڈبلا ہونا۔ أحتقت الطعنة
بہ: فوراً مار ڈالنا۔ أحتق القوم: ہر ایک کا یہ
کہنا کہ حق میرے پاس ہے۔

..... الناقه: موٹی ہونا۔ کہا جاتا ہے "أحقه
إلى كذا" یعنی اسے موخر کیا اور اس پر تنگی
ڈالی۔

إسحقه: ضروری و واجب ٹھہرانا۔ الدين:
ادائیگی کا وقت قریب آنا۔

الناقه: موٹی ہونا۔ الرجل: مستحق سزا
ہونا۔

الحق: مص۔ سچائی۔ راستی یقین۔
الانصاف: ثابت شدہ حصہ۔ مال اور ملک۔
ہوشیاری۔ فیصل شدہ معاملہ۔ موت۔ ج

حقوق اور کہا جاتا ہے "هو حق بكذا" وہ
اس کے لائق ہے "ولحق لا آتیک" بغیر
توین کے یعنی قسم ہے حق اللہ کی میں تیرے
پاس نہیں آؤں گا۔ "وحقا لا آتیک"
توین کے ساتھ بغیر لام کے حقوق الدار۔ گھر
کے منافع۔

الحقة: مص۔ حق۔ یہ لفظ حق سے خاص ہے
اس وجہ سے کہ حصہ معینہ پر دلالت کرتا ہے۔
تم کہتے ہو "هذه حقني" یہ میرا خاص حصہ

ہے۔ تحقیق امر۔ تم کہتے ہو "وقففت علی
حقه ذلک الامر" میں اس امر کی حقیقت
پر مطلع ہو گیا۔ مصیبت۔

الحق: مونڈھے کے سرے کا کڑھا۔ سرین
کا سرا۔ بازو کا سرا۔ گول زمین۔ یا پست
زمین۔ کڑی کا جالا۔ ححق الطیب: خوشبو کی
ڈبیر۔ ج حقاق۔

الحقة: چھوٹا برتن۔ مصیبت۔ عورت۔ ج
حق وحق وحقاق۔

الحق: من الابل: چوتھے سال والا اونٹ نر
ہو یا مادہ اور یہ اس لئے کہ اب وہ بار برداری
کے قابل ہو گیا۔ اونٹنی جس کے دانت
بڑھاپے کی وجہ سے گر گئے ہوں۔

ألحقه: حق و واجب۔
الحقیق: لائق سزا اور کہا جاتا ہے۔ "هو حقیق
أن يفعل كذا" وہ فلاں کام کرنے کے لائق
ہے۔ "هو حقیق بكذا" وہ اس کے لائق ہے۔
والحقیق علی الشيء: حریص۔ لالچی۔ ج
أحقا۔

الحقیقة: وہ چیز جس کی حمایت واجب ہو کہا
جاتا ہے "هو حاسمی الحقیقة" وهو من
حمایة الحقائق" یعنی وہ اس چیز کی حفاظت
کرتا ہے جس کا دفاع اس کے ذمہ لازم
ہے۔

حق: وہ لفظ جو اپنے موضوع لہ میں مستعمل
ہو۔ حقیقة الشيء: چیز کا مٹنی اور اصل۔ ج
حقائق۔

الحق: مونڈھے کے سرے کا کڑھا۔ سرین
کا سرا۔ بازو کا سرا۔ گول زمین۔ یا پست
زمین۔ کڑی کا جالا۔ ححق الطیب: خوشبو کی
ڈبیر۔ ج حقاق۔

الحقة: چھوٹا برتن۔ مصیبت۔ عورت۔ ج
حق وحق وحقاق۔

الحق: من الابل: چوتھے سال والا اونٹ نر
ہو یا مادہ اور یہ اس لئے کہ اب وہ بار برداری
کے قابل ہو گیا۔ اونٹنی جس کے دانت
بڑھاپے کی وجہ سے گر گئے ہوں۔

ألحقه: حق و واجب۔
الحقیق: لائق سزا اور کہا جاتا ہے۔ "هو حقیق
أن يفعل كذا" وہ فلاں کام کرنے کے لائق
ہے۔ "هو حقیق بكذا" وہ اس کے لائق ہے۔
والحقیق علی الشيء: حریص۔ لالچی۔ ج
أحقا۔

الحقیقة: وہ چیز جس کی حمایت واجب ہو کہا
جاتا ہے "هو حاسمی الحقیقة" وهو من
حمایة الحقائق" یعنی وہ اس چیز کی حفاظت
کرتا ہے جس کا دفاع اس کے ذمہ لازم
ہے۔

حق: وہ لفظ جو اپنے موضوع لہ میں مستعمل
ہو۔ حقیقة الشيء: چیز کا مٹنی اور اصل۔ ج
حقائق۔

الحق: مونڈھے کے سرے کا کڑھا۔ سرین
کا سرا۔ بازو کا سرا۔ گول زمین۔ یا پست
زمین۔ کڑی کا جالا۔ ححق الطیب: خوشبو کی
ڈبیر۔ ج حقاق۔

الحقة: چھوٹا برتن۔ مصیبت۔ عورت۔ ج
حق وحق وحقاق۔

الحق: من الابل: چوتھے سال والا اونٹ نر
ہو یا مادہ اور یہ اس لئے کہ اب وہ بار برداری
کے قابل ہو گیا۔ اونٹنی جس کے دانت
بڑھاپے کی وجہ سے گر گئے ہوں۔

ألحقه: حق و واجب۔
الحقیق: لائق سزا اور کہا جاتا ہے۔ "هو حقیق
أن يفعل كذا" وہ فلاں کام کرنے کے لائق
ہے۔ "هو حقیق بكذا" وہ اس کے لائق ہے۔
والحقیق علی الشيء: حریص۔ لالچی۔ ج
أحقا۔

الحقیقة: وہ چیز جس کی حمایت واجب ہو کہا
جاتا ہے "هو حاسمی الحقیقة" وهو من
حمایة الحقائق" یعنی وہ اس چیز کی حفاظت
کرتا ہے جس کا دفاع اس کے ذمہ لازم
ہے۔

حق: وہ لفظ جو اپنے موضوع لہ میں مستعمل
ہو۔ حقیقة الشيء: چیز کا مٹنی اور اصل۔ ج
حقائق۔

الحق: مونڈھے کے سرے کا کڑھا۔ سرین
کا سرا۔ بازو کا سرا۔ گول زمین۔ یا پست
زمین۔ کڑی کا جالا۔ ححق الطیب: خوشبو کی
ڈبیر۔ ج حقاق۔

الحقة: چھوٹا برتن۔ مصیبت۔ عورت۔ ج
حق وحق وحقاق۔

الحق: من الابل: چوتھے سال والا اونٹ نر
ہو یا مادہ اور یہ اس لئے کہ اب وہ بار برداری
کے قابل ہو گیا۔ اونٹنی جس کے دانت
بڑھاپے کی وجہ سے گر گئے ہوں۔

ألحقه: حق و واجب۔
الحقیق: لائق سزا اور کہا جاتا ہے۔ "هو حقیق
أن يفعل كذا" وہ فلاں کام کرنے کے لائق
ہے۔ "هو حقیق بكذا" وہ اس کے لائق ہے۔
والحقیق علی الشيء: حریص۔ لالچی۔ ج
أحقا۔

الحقیقة: وہ چیز جس کی حمایت واجب ہو کہا
جاتا ہے "هو حاسمی الحقیقة" وهو من
حمایة الحقائق" یعنی وہ اس چیز کی حفاظت
کرتا ہے جس کا دفاع اس کے ذمہ لازم
ہے۔

حق: وہ لفظ جو اپنے موضوع لہ میں مستعمل
ہو۔ حقیقة الشيء: چیز کا مٹنی اور اصل۔ ج
حقائق۔

قیامت۔ کہا جاتا ہے "ہو رجل حاقفة"
الرجل "وہ مردانگی میں کامل ہے۔"
"وہو شجاع حاقفة الشجاع" وہ بہادری
میں کامل ہے۔
الاحق: اسم تفضیل۔ "ہو احق من فلان" کا
مطلب یہ ہے کہ وہ فلاں سے زیادہ حق دار
ہے اور کبھی بغیر شرکت کے صرف خصوصیت
کے معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے "زید
احق بمالہ" زید اپنے مال کا حق دار ہے کسی
دوسرے کا۔ اس میں حق نہیں۔
المُحَقَّق: مفعول۔ کلام مُحَقَّق: منظم کلام۔
ثوب محقق: مضبوط بنا ہوا کپڑا۔
المُحَقَّقُون: مفعول۔ لائق۔ سزاوار۔ کہا جاتا
ہے "ہو محقق بكذا" وہ اس کے لائق
ہے۔ "ہو محقق ان يفعل كذا" وہ ایسا
کرنے کے لائق ہے۔
الحَقَائِق: حق کی جانب منسوب۔ جیسے ربانی
رب کی جانب منسوب۔
حَقَب (س) حَقَبًا وَاخْتَبَ: المطرُ: رکتنا
..... السَّعَامُ: بارش نہ ہونے سے خشک سالی
ہونا..... المَعْدُنُ: ختم ہونا..... نائل فلان:
کم اور منقطع ہونا..... الامْرُ: خراب ہونا۔
أَخْتَبَ: پیچھے سوار کرنا۔
إخْتَبَ: الاثم: مرتکب گناہ ہونا۔
زیدًا علی ناقبہ: پیچھے سوار کرنا
(واستخقب) الشئ: ذخیرہ کرنا۔ کجاہ یا
پالان کے پیچھے باندھنا۔
الْحُقْبُ: حَقَابٌ وَ(النُّحْبُ) حَقَابٌ
وَإخْتَبَ: اسی سال یا اس سے زائد کا
عرصہ۔ زمانہ ایک سال یا بہت سے سال۔
الحَقْبُ: اونٹ کا تنگ۔ وہ چیز جس کو گورت
اپنی کر پر باندھتی ہے اور اس میں زیور لگا دیا
ہے۔
الحَقْبِيَّة: مدت۔ سال۔ حَقْبٌ
وَخُقُوبٌ.
الحَقْبِيَّة: ہوا۔
الحَقَاب: عورت کے لئے کر پر باندھ کر

زیور لگانے کی چیز۔ ناخن کے جز کی سفیدی
حَقْبٌ.
الحَقْبِيَّة: وہ چیز جس کو سوار گھوڑے پر اپنے
پیچھے رکھے۔ مسافر کے لئے خوراک وغیرہ کا
بیگ یا تھیلا۔ حَقَابٌ.
الحَقَاب: وہ شخص جو پانچا نہ روکے ہوئے
ہو۔
الْأخْتَبُ: گور خر۔ مَوْنُ حَقَابٍ.
المُخْتَبُ: لومڑی۔
حَقَدَ (ض) حَقْدًا وَحَقْدًا وَحَقِيدَةً.
وَحَقْدَ (س) حَقْدًا وَتَحَقَّدَ: علیہ: کینہ
رکھنا۔ صفت (حَقَادٌ) حَقْدَةٌ. حَقْدٌ
المَطْرُ: رکتنا..... المَعْدُنُ: کان کا ختم ہونا
اور کچھ نہ ملنا..... الناقَةُ: چربی سے بھر جانا۔
أخْتَدَ: کینہ اور بنا نا..... القومُ: کان
میں تلاش کرنا اور کچھ نہ پانا۔
تَحَقَّدَ: القومُ: ایک دوسرے سے کینہ
رکھنا۔
إخْتَدَ: المطرُ: رکتنا..... علی فلان: کینہ
رکھنا۔
الحَقْدُ حَقَادٌ وَخُقُودٌ (وَالْحَقِيدَةُ) حَقْدٌ
حَقَابٌ: کینہ۔
الحَقُودُ: بہت کینہ ور۔
حَقْرٌ (ض) حَقْرٌ وَخَقْرِيَّةٌ: ہ: چھوٹا
ذلیل سمجھنا۔ حَقْرُ الشئِ وَالرَّجُلُ: ذلیل
ہونا۔ بے قدر ہونا۔
خَقْرٌ (س) حَقْرًا وَخَقْرٌ (ك) حَقَارَةٌ:
ذلیل ہونا۔ صفت (خَقِيرٌ وَخَقِيرٌ وَخَقِرٌ)
حَقْرَةٌ: ذلیل کرنا۔
أخْقَرَةٌ وَإخْقَرَةٌ وَاسْتخْقَرَةٌ: چھوٹا
ذلیل سمجھنا۔
تَخَقَّرَ: اپنے آپ کو ذلیل کرنا۔ کہا جاتا ہے
"تَخَقَّرْتُ إِلَيْهِ نَفْسُهُ" یعنی ذلیل ہو گیا۔
الْحَقَارَةُ وَالْجَقَارَةُ وَالْحَقَارَةُ
وَالْمَخْقَرَةُ: ذلت و بے قدری۔ کہا جاتا ہے
"هَذَا الْأَمْرُ مَخْقَرَةٌ لَكَ" یہ امر تمہارے
لئے باعث ذلت ہے۔

المُحَقَّرَات: چھوٹے چھوٹے۔
الحَقْفَةُ: پست قدم یا سبک جسم والی عورت۔
الحَقْفُ وَالْحَقْفَانُ: تیز اور بقول بعض ز
تیز۔ مَوْنُ الحَقْفَانِ.
حَقْفٌ (ن) حَقُوفًا: الطَّبِيُّ: ہرن کا ریگ
کے تودہ میں بیٹھنا یا سونے کی حالت میں سڑ
کر ریگ کے تودہ کی مانند ہونا..... الشَّيْ:
ٹیز ہا ہونا۔ صفت (حَقَافٌ)
إخْقُوفٌ: لبا و ٹیز ہا ہونا۔
الْحَقِيفُ: دراز و پیچیدہ تودہ ریت۔ ح
أخْقَافٌ وَخُقُوفٌ وَحَقَافٌ وَحَقْفَةٌ وَحَقْ
حَقَابٌ.
المُخْتَفُ: وہ شخص جو نہ کھائے نہ پیے۔
حَقِيلٌ (س) حَقْلًا وَحَقْلَةً: البَعِيرُ
او الفرسُ: مٹی کھانے سے در و شکم میں مبتلا
ہونا۔
حَقَائِلٌ مُحَاقِلَةٌ: بھتی کو خوشہ ہی میں بیچنا۔
أخْقَلْتُ: الارضُ: قابل زراعت ہونا۔
أخْقَلُ الزرعُ: پتے چھوٹنا..... الرجلُ فِی
الركوبِ: سواری کی پیٹھ پر جم کر بیٹھنا۔
السَّحْقُ: عمدہ قابل کاشت زمین۔ بھتی جب
تک بزر ہے۔ حَقْفُولٌ واحدٌ حَقْلَةٌ.
السَّحْقُ: ہودن (..... وَالْحَقْلَةُ) گھوڑے یا
اونٹ کے پیٹ میں مٹی کھانے کی وجہ سے
درو۔
السَّحْقَةُ: مثلثة. الحاء: دودھ یا پانی کا
بقیہ۔ ردی کھجور۔ کھجور کا بیجا کھچا۔
السَّحْقَةُ: بالفتح: حوض کا باقی ماندہ صاف
پانی۔
السَّحْقَةُ: بالكسر: پیالہ بھرے کم۔
الحَقَائِلُ: فا: کاشتکار۔
المُخْتَقِلَةُ: بھتی۔ حَقَائِلٌ.
السَّحْقِيَّةُ وَالْحَقَائِلُ: ردی کھجور۔
السَّحْقِيَّانُ: کپڑی کی طرف کے دووں گوشہ
چشم۔
حَقْنَهُ (ن ض) حَقْنَا: روک لینا اور اسی سے
ہے "حَقْنٌ يَوْلَهُ" اس نے پیشاب کو روک

<p>ٹھنڈی ہوا کے پھینچنے سے ہوتی ہے اور اس کا اثر دماغ تک ہوتا ہے اور آنکھوں میں آنسو آجاتے ہیں۔ شک۔</p>	<p>کی۔ الحقفاء والحقوة: ازار یا ازار باندھنے کی جگہ۔ گوشت کھانے سے پیٹ کا درد۔</p>	<p>لیا۔ دمہ: گرانے سے بچانا۔ ماء وجہہ: آبروی حفاظت کرنا۔ اللسن: مکھن نکالنے کے لئے مشکیزہ میں جمع کرنا۔</p>
<p>السحاكة: دانت۔ کہا جاتا ہے "صابقی فی فمہ سخاکة" اس کے مز میں دانت نہیں۔ الخحاک: سوڑا۔ ایک قسم کا مرض جس میں کھجلی ہوتی ہے۔</p>	<p>حک (ن) خحکا۔ الشئی بالشئی أو علیہ: رگڑنا۔ گھسانا۔ الشئی: چھکا اُتارنا۔</p>	<p>المريض: حقن سے علاج کرنا۔ اخقن: مزیدار ہونے کے لئے مختلف قسم کے دودھ جمع کرنا۔</p>
<p>السحاكة: وہ جو کسی چیز کے رگڑنے سے گرے۔</p>	<p>(.....) وأحک وأحتک: الکلام فی صدرہ: دل میں اثر کرنا اور کہا جاتا ہے "مساخک فی صدري کذا" میرے دل میں یہ بات نہیں اُتری۔</p>	<p>أخقن: پیشاب رکنا۔ حقنہ: استعمال کرنا۔ السدم: بدن کے اندرونی حصہ میں تیز مارنے سے خون جمع ہونا۔</p>
<p>الاححاک: ہم کھولوگ۔ کہا جاتا ہے "لست من أحمک" یعنی تو اس کے مردوں میں سے نہیں۔</p>	<p>خحک وأحک وأحتک: الخحاک بالشئی: کسی چیز کے ساتھ لازم ہونا۔ سخاک: سخاکة و سخاکا۔ الرجل: برابری کرنا۔ مقابلہ کرنا۔</p>	<p>الحقنة: ہر دو اجزائے پیشاب کی مقعد سے پیٹ صاف کرنے کیلئے چڑھائی جائے۔ ححقن۔ الحقنة: پیٹ کا درد۔ ححقان۔</p>
<p>الاححک: دانتوں سے خالی منہ والا۔ ترشا ہوا کھر۔</p>	<p>تَححک: بہ دور پے برائی ہونا۔ امثلہ عرب میں سے ہے "تحکت العقرب بالحيّة" اس کے حق میں بولتے ہیں جو اپنے قوی سے جھگڑا کرے۔</p>	<p>الحاقن: فا۔ پیشاب روکنے والا اور اسی سے مثل ہے "لازای للاحقن" یعنی پیشاب روکنے والے کی رائے کا اعتبار نہیں۔ اس لئے کہ وہ اس وقت اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ یہ مثل مضطر کے لئے بولتے ہیں۔</p>
<p>الاححاک: بہت رگڑنے والا۔ امتحان کے لئے سونے کو رگڑنے والا۔ المححک: کسوٹی۔</p>	<p>تَححک: ایک دوسرے کو کھجلانا۔ باہم مقابلہ کرنا۔</p>	<p>الحاقية: ہنسی کی دونوں ہڈیوں کے درمیان کا حصہ اور اسی سے مثل ہے "لا للاحقن" خواہ ایک ہڈی کو تہدید کے موقع پر بولتے ہیں۔</p>
<p>المححک: مفتح۔ الجذل المححک: خارش آونٹ کے کھیلانے کے لئے درخت کا تنہ۔ کہا جاتا ہے "اناجذیلها المححک وغذیفها المرجب" یعنی میری رائے سے شفا حاصل کی جاتی ہے جیسے آونٹ تنہ سے شفا حاصل کرتا ہے۔</p>	<p>الحجک: شک۔ (.....) والحجک: خارش آونٹ کے کھیلانے کے لئے درخت کا تنہ۔ کہا جاتا ہے "فلان حجک او حجکک" شہر۔ فلاں شہر کے اوپر غالب ہے وہ بہت اس سے مقابلہ کرتا ہے۔</p>	<p>المحققین: روکا ہوا۔ کہا جاتا ہے "سقاء اللین المحقین" اس نے اس کو مشکیزہ میں جمع کیا ہوا دودھ پلایا۔ ححقنی۔</p>
<p>ححکا (ف) ححکا وأحکا وأحتکا: العقدة: باندھنا۔ احتکات العقدة: سخت ہونا۔ کہا جاتا ہے "احتک الشئی فی صدري" میرے دل میں جاگڑیں ہو گیا۔ پس مجھے شک نہیں۔</p>	<p>الححک: جہاز رانوں کا قطب نما (مولدہ) الخحکات: وسوسے۔ واحد (ححکة) الححک: رخام کی مانند سفید پتھر۔ موٹھ سے ہلاتے ہوئے چلنے والی عورت کی مانند رفتار۔</p>	<p>المحققن والمحقنة: حقنہ کی پچکاری المحقن: وہ مشکیزہ جس میں دودھ جمع کیا جائے۔</p>
<p>الخحاکة والخحاکة: بڑا گرگت۔</p>	<p>الححکة: نرم پتھروں والی زمین۔ الححک: برائی والے۔ حاجات کے طلب کرنے میں اصرار کرنے والے۔ واحد (حاک)</p>	<p>المحققان: پیشاب روکنے والا۔ عوام المحقن: اور المحققان: کو پانی کی ٹینکی کے لئے استعمال کرتے ہیں۔</p>
<p>ححکوہ (ض) ححکوہ: گھٹانا۔ ظلم کرنا۔ بری معاشرت اختیار کرنا۔ زندگی بسر کرنے میں تنگی و مشقت ڈالنا۔</p>	<p>ححکوہ (س) ححکوہ: اصرار کرنا۔ صفت (ححکو)..... بالاصور: خود ہونا۔</p>	<p>حقفا: درد کمر والا ہونا۔ گوشت کھانے سے درد کمر والا ہونا۔ صفت (محقفو ومحقفی) تحقفی: درد کمر والا ہونا۔</p>
<p>ححکوہ (س) ححکوہ: اصرار کرنا۔ صفت (ححکو)..... بالاصور: خود ہونا۔</p>	<p>ححکوہ (ض) ححکوہ: گھٹانا۔ ظلم کرنا۔ بری معاشرت اختیار کرنا۔ زندگی بسر کرنے میں تنگی و مشقت ڈالنا۔</p>	<p>حقفا (ن) حقفا: کوکھ پر مارنا۔ حقی: درد کمر والا ہونا۔ گوشت کھانے سے درد کمر والا ہونا۔ صفت (محقفو ومحقفی) تحقفی: درد کمر والا ہونا۔</p>
<p>ححکوہ (س) ححکوہ: اصرار کرنا۔ صفت (ححکو)..... بالاصور: خود ہونا۔</p>	<p>ححکوہ (ض) ححکوہ: گھٹانا۔ ظلم کرنا۔ بری معاشرت اختیار کرنا۔ زندگی بسر کرنے میں تنگی و مشقت ڈالنا۔</p>	<p>الححقو: کوکھ۔ ازار۔ پہاڑ کا کنارہ۔ ححقاء وأحق وأحقاء: حقی: کہا جاتا ہے "لاذ بحقوہ" اس نے اس سے فریادری</p>

التحکمر: بمص۔ (والتحکمر) تھوڑا پانی یا کھانا۔ چھوٹا پیالہ۔

التحکرو والتحکرو: گراں بیچنے کے لئے روکی ہوئی چیز۔ تھوڑا کھانا یا دودھ۔

التحکرة: غلہ کی بندش۔

التحکرة: پائیں باغ۔ (عامیہ)

تحکس (ض) تحکسا: الرجل: سہمتا۔

حشيشة الينسار: امریکہ اور یورپ میں بکثرت پیدا ہونے والا پودہ جس کو شراب تیار کی تیاری میں استعمال کرتے ہیں۔

..... الشئ: جمع کرنا..... الرجل: ظلم کرنا۔

حكف (ض) حكفوا: الرجل: کام میں ست ہونا۔

حكك (ن) حكلا وأحكك وأحكك: الامر عليه: دشوار و مشتبہ ہونا۔

تَحَكَّل: جہالت سے اصرار کرنا۔

التحكك: وہ جس کی آواز سائی نہ دے۔ کہا جاتا ہے "تَكَلَّمَ كَلَامَ التَّحَكُّكِ" اس نے غیر مفہوم گفتگو کی۔

التحكك: في الفرس: گھوڑے کے ٹخنوں کا ڈھیلا پن۔

التحككة: جہالت کی وجہ سے اصرار۔

حكك (ن) حككنا: لوئنا۔ واپس ہونا۔ کہا جاتا ہے "احكمه فحكك" اس نے اس کو واپس کیا اور وہ واپس ہو گیا۔ الفرس:

گھوڑے کے منہ میں حکد لگانا (دیکھئے لفظ

حكمه)..... عن كذا: منع کرنا۔ باز رکھنا۔

حكك (ك) حكمة: دانہ ہونا۔

حكمة: حاکم بنانا۔ حکمہ فی الامر: فیصلہ کرنے کے لئے سپرد کرنا..... عن كذا:

لوانا اور منع کرنا۔

حاکمہ: بھگڑا کرنا۔ حاکمہ الی الحاکم: بھگڑنے کو حاکم کے سامنے لے جانا۔

أحكك: الشئ: مضبوطی سے کرنا۔ أحكمته: التجارب: دانہ و عقند بنا دینا۔ أحكك:

السفينة: کسی بڑے کام کے کرنے سے ہاتھ

پکڑ لینا یا بڑے انجام کو جتا دینا..... عن الامر: رد کرنا منع کرنا..... الفرس:

گھوڑے کے منہ میں حکمہ لگانا۔ (دیکھئے الحکمہ)

تَحَكَّم: فی الامر: بغیر وجہ ظاہر ہوئے اپنی رائے سے فیصلہ کرنا۔ حکم جاری کرنا۔ خواہش کے مطابق تصرف کرنا۔

أَحَكَّم: فی الامر: بیخ منظور کرنا.....

الناس الی الحاکم: مقدمہ لے جانا.....

على فلان: ارادہ کے موافق طلب کرنا.....

فی الشئ: خواہش کے مطابق تصرف کرنا.....

الامر: مضبوط ہونا۔

تَحَاكَمُوا: الی الحاکم: مقدمہ لے جانا۔

أَسْتَحَكَم: الامر: مضبوط ہونا.....

الكلام: مشتبہ ہونا۔

التحكيم: بمص۔ فیصلہ۔ حکم احکام۔

التحكيم: حکم جاری کرنے والا۔ حاکم۔ فیصلہ کرنے والا۔ سر بیچ (مفرد و جمع دونوں کے

لئے مستعمل ہے) کو حَلَّ حَكْم: عمر رسیدہ مرد۔

التحكمة: انصاف۔ ظلم۔ بردباری۔ فلسفہ۔

حق کے موافق گفتگو۔ کام کی درستی۔ ح حکم۔

التحكمة: لگام کا وہ حصہ جو گھوڑے کے

دونوں جڑوں کی جانب ہو..... من

الانسان: چہرے کے سامنے کا حصہ۔ قدر و منزلت۔

التحكوة: بمص۔ گورنمنٹ۔

التحكيم: قاضی۔ حکم نافذ کرنے والا۔ ح حکام و حاکمون۔

التحكيم: دانہ۔ عالم۔ ح حکماء: موت

حکیمہ۔ قصیدہ حکیمہ: دانائی آ میز

قصیدہ۔ الحکیم: اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ

میں سے ہے۔

التحكوة: تحکم فی الامر: کا اسم۔

التحكمة: پیکری۔ ح محاکم۔

التحكيم: منع۔ آزمودہ..... والتحكيم:

اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنے والا۔

حكك (ض) حككايه: عنه الكلام: نقل کرنا..... الحبر: بیان کرنا.....

فلاذ: مشابہ ہونا..... الشئ: مشابہ بنانا۔ حکمی علیہ:

چغل خوری کرنا..... العقيدة: باندھنا۔

أحكك: الحکماء: العقدة: باندھنا۔

حاکمی متحاکماتہ: مشابہ ہونا۔

أحكك: الحکماء: الامر: مضبوط ہونا۔

التحكيم: چغل خور۔ (مذکر و مؤنث)

حل (ن) حلا: العقدة: کھولنا۔

أحللت: العقدة: کھل جانا۔

حل (ن ض) حلولا: علیه امر الله:

واجب ہونا۔

حل (ن ض) حلا وحلا وحلولا:

المسکان و بالمسکان: نازل ہونا.....

به فی المسکان: اتارنا۔

حل (ض) حلا: الشئ: حلال ہونا۔

..... الدين: ادا کیلے کا وقت پہنچنا۔

اليمين: قسم پوری ہونا..... الرجل: احرام سے نکلنا۔

حل: الحمام: بگھلا یا جانا..... المسکان:

آباد ہونا۔

حل (س) حلا: پاؤں یا ٹخنوں میں ڈھیلا پن ہونا۔ صفت (أحل) ح حل۔

حلل: تحللا وتحللا وتحلا: الشئ:

حلال ٹھہرانا..... اليمين: کفارہ ادا کرنا۔

حلل: بالمسکان: اتارنا۔

تحليل الكهف: بانی: مرکب اجسام کو بکلی

والی ہر طرف کے ساتھ ان کے عناصر کی طرف

لوانا۔ جیسے پانی کو آکسیجن اور ہائیڈروجن کی

طرف لوانا۔

أحل: أخلاقاً: عہد و میثاق سے آزاد ہونا

..... المحرم: احرام سے نکل جانا۔ شہر حرم

کے علاوہ زمینوں میں داخل ہونا..... بنفسه:

مستحق سزا ہونا۔ أحل: بالمسکان او المسکان:

اتارنا..... الشئ: حلال کرنا..... علیہ

الامر: واجب کرنا..... الساقف علی ولدها:

دودھ جاری ہونا۔
اِنْحَلُّ: مُحَلُّ جاتا۔

تَحَلَّلُ: فِي يَمِينِهِ: شَرْطِيَّةٌ قَسْمُ كِهَانَا۔ جِيسے
وَاللّٰهُ لَا فَعْلَنَ ذَلِكَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ يَا اِلٰهَ
يَكُوْنُ كَذَا..... مِنْ يَمِيْنِهِ: كَفَارَةُ اِدَا كَرَكْ
آزاد ہو جاتا۔ تَحَلَّلْتُ: حَلَالُ كَرُوْنِي كُو
چاہتا۔

اِحْتَلَّ: الْمَكَانَ وَبِالْمَكَانِ: اُتْرَنَا اُو اِيَا
ہی کہا جاتا ہے 'اِحْتَلَّ الْقَوْمَ وَبِالْقَوْمِ' وہ
قوم کے پاس اُترا۔

اِسْتَحَلَّ: الشَّيْءُ: حَلَالٌ مَجْهُتًا يَحَلَالُ كَرِيْمًا۔
اِسْتَحَلَّهُ الشَّيْءُ: حَلَالٌ مَجْهُرًا فِي كِي اِبَارَت
چاہتا۔

الْحَالُ: فَا۔ حِ خَلَّلَ وَخُلِّوْلُ
وَخُلَّالٌ وَ(الْحُلَّالُ) حَالٌ: كَا اِسْمٍ مَبْنِيَّةٍ۔
کہا جاتا ہے 'فَلَانٌ حُلَّالٌ لِّلْعُقُوْدِ كَسَافٍ
لِّلْمُهْمَاتِ' فلاں گروہوں کا بڑا کھولنے والا
اور مشکلات کے لئے کافی ہے۔

الْحُلُّ: بِلُ كَا تَيْلُ۔
الْحِلُّ: مِصْ۔ حَلَالٌ مَدَّ كَرَمُهُ كِي اَرُوْدُ كَرَمِ
مَحْتَرَمِ كِي علاوہ جگہ۔ کسی جگہ میں اُترنے
والا۔ جیسے 'مَازَلْتُ حَلًّا بِهَذَا الْبَلَدِ' میں
بیش اس شہر میں اُترنے والا ہوں۔

وَالْاِشْهَارُ الْحِلُّ: اِشْهَرُ حَرَمِ كِي علاوہ مِيْنِي۔
الْحِلُّ: نَشَانَةُ۔ جِمْسِ پَر تِيْر اِنْدَا زِي كِي جَانِي۔
قسم سے بری ہونا۔

الْحُلُوْلُ: اِس سے مَرَادُوْ جِسْمُوْنِ كَا اِس
طَرَحِ مَشْهُدُ بُوْتَا كِي اِن مِيْنِ سِي اِي كِي طَرَفِ
اِشَارَةُ دُو سَرِي كِي طَرَفِ اِشَارَةُ بُوْ كِيَا۔ اِسِي
سے مذہبِ حُلُوْلِ ہے۔ اِس مَذْهَبِ وَاوُوْنِ كَا
عَقِيْدَةُ قَاسِدَةُ ہے كِي اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ ہر شے میں
حُلُوْلُ كَر كِيَا ہے اِس لِيے ہر شے پَر اللّٰهُ كَا
اطْلَاقُ بُو سَكْتَا ہے۔

حُلُوْلُ جِيْزِي: اِجْسَامُ كَا حُلُوْلُ مَقَامَاتِ
میں۔

حُلُوْلُ وَضْفِي: سِيَا سِي كَا حُلُوْلُ جِسْمِ مِيْنِ۔
حُلُوْلُ سِيْزِيَا سِي: صُوْرَتُ كَا حُلُوْلُ سِيُوِي مِيْنِ يَا

اعراضِ نَفْسَانِيَّةِ كَا حُلُوْلُ لُحْسِ مِيْنِ۔

حُلُوْلُ اِبْعُوَارِي: دُو جِسْمُوْنِ مِيْنِ سِي اِي كِي
دُو سَرِي كَا طَرَفِ بُو جِيْسِي پَانِي آ نَجُوْرِي
مِيْنِ۔ حُلُوْلِيْهُ فَرَقَةُ: صُوْفِيَاةُ كَرَامِ كَا اِي كِي
فَرَقَةُ جُو كِي مَذْهَبِ حُلُوْلِ كِي قَائِلِ مِيْنِ۔

الْحِلُّ وَالْحَلُّ: اِحْرَامُ سِي نَكْفِي كَا وَتِ كَا كِيَا
جَاتَا ہے 'فَعْلُهُ فِي حَيْلِهِ وَخُوْمِهِ' اِس نِي
اِس كُو اِحْرَامِ مِيْنِ اُو اِحْرَامِ سِي نَكْفِي كِي
وَ تِ كِيَا۔

السَّخْلَةُ: حُلُوْلُ كَا اِسْمُ مَرَّةٍ۔ نَزْكَلُ كَا بِنَا بُو اِبْرَا
نُو كَرَا۔ (رہ..... وَالْحِجْلَةُ) اُتْرَنِي كِي جگہ۔
مَجْلِسُ۔ تَبْعُ بُوْنِي كِي جگہ۔..... مِنْ الشَّيْءِ:
جِبْتِ وَجَانِبِ۔ حِ جَلَّلُ وَجَلَّالٌ اُو ر كِيَا جَاتَا

ہے 'فِيْهِ حَلَّةٌ اَوْ حِلَّةٌ' اِس مِيْنِ كَرْزُوْرِي
ہے۔ السَّجْلَةُ: اُتْرَنِي كِي بِيْتِ۔ نَا زَلُ
بُوْنِي وَاِي قَوْمِ جُو بِيْتِ زِيَا دَةُ بُو۔ كِيَا جَاتَا
ہے 'جِيْتِي حَلَالٌ' اُتْرَنِي وَاَلَا قَبِيْلَةُ جِيْمِ كِي
اِنْدَرْ بِيْتِ كَثْرَتِ ہے۔

السَّخْلَةُ: نِيَا كِيْزَا۔ كِيْزُوْنِ كَا جُوْزَا۔ بِيْتْھِيَارِ۔ كِيَا
جَاتَا ہے 'لِيْسَ الْمَحَارِبُ حَلَّتْهُ وَبُوْتَتْهُ'
جَنَكُ كَرَنِي وَاَلِي نِي اِنْبَا لِبَا سِ اُو ر بِيْتْھِيَارِ
اِسْتَعْمَالُ كِيَا۔ حِ خُلِّلُ وَجَلَّالُ۔

السَّخْلَةُ: جِرْمِ (مَوْلِدَةُ)
الْحَلَالُ: ضِدُّ حَرَامِ۔ اِحْرَامِ سِي نَكْفِي وَاَلَا۔
وَالسَّحْرُ الْخَلَالُ: تَجْبُ اَكْبِيْزِ اَمُوْرِ جِيْمِ سِي
عَقْلِ جِيْرَانِ بُو جَائِي۔ الْحَلُوْلُ الْحَلَالُ: كَلَامُ
جِيْمِ مِيْنِ شَكِ نَبُو۔

الْحَلَالُ: ضِدُّ حَرَامِ۔ كَبَا دُهُ كَا سَا مَانِ۔
عُوْرَتُوْنِ كِي اِي كِي سُوَارِي۔
السَّخْلِيْلُ: حَلَالٌ۔ شُوْبُرٌ (..... وَالْحَلِيْلَةُ)
بِيُوِي۔ السَّخْلِيْلُ: گُھَرِ مِيْنِ اِي كِي مَاتْھَرِ رَبْنِي
وَاَلَا۔ حِ اَجَلَاءُ مَوْنَتِ حَلِيْلِي وَحَلِيْلَةُ جِ
خَلَّابِلِ۔

الْاِحْلَالُ: اِفْعَالُ حِجِّ سِي فَرَاغَتِ۔
الْاِحْلِيْلُ: پِيْشَابِ نَكْفِي كَا سُوْرَاخِ۔ لِيْطَانِ
مِيْنِ دُو دُھِ نَكْفِي كَا سُوْرَاخِ۔ حِ اَحْلَالِيْلُ۔
السَّخْلَةُ: قَسْمُ كَا كَفَارَةُ يَا قَسْمِ مِيْنِ اِسْتِشْاؤِ۔

السَّخْلَةُ: ضِدُّ حَرَامِ۔ كَبَا دُهُ كَا سَا مَانِ۔
عُوْرَتُوْنِ كِي اِي كِي سُوَارِي۔
السَّخْلِيْلُ: حَلَالٌ۔ شُوْبُرٌ (..... وَالْحَلِيْلَةُ)
بِيُوِي۔ السَّخْلِيْلُ: گُھَرِ مِيْنِ اِي كِي مَاتْھَرِ رَبْنِي
وَاَلَا۔ حِ اَجَلَاءُ مَوْنَتِ حَلِيْلِي وَحَلِيْلَةُ جِ
خَلَّابِلِ۔

الْحَلَالُ: ضِدُّ حَرَامِ۔ كَبَا دُهُ كَا سَا مَانِ۔
عُوْرَتُوْنِ كِي اِي كِي سُوَارِي۔
السَّخْلِيْلُ: حَلَالٌ۔ شُوْبُرٌ (..... وَالْحَلِيْلَةُ)
بِيُوِي۔ السَّخْلِيْلُ: گُھَرِ مِيْنِ اِي كِي مَاتْھَرِ رَبْنِي
وَاَلَا۔ حِ اَجَلَاءُ مَوْنَتِ حَلِيْلِي وَحَلِيْلَةُ جِ
خَلَّابِلِ۔

الْحَلَالُ: ضِدُّ حَرَامِ۔ كَبَا دُهُ كَا سَا مَانِ۔
عُوْرَتُوْنِ كِي اِي كِي سُوَارِي۔
السَّخْلِيْلُ: حَلَالٌ۔ شُوْبُرٌ (..... وَالْحَلِيْلَةُ)
بِيُوِي۔ السَّخْلِيْلُ: گُھَرِ مِيْنِ اِي كِي مَاتْھَرِ رَبْنِي
وَاَلَا۔ حِ اَجَلَاءُ مَوْنَتِ حَلِيْلِي وَحَلِيْلَةُ جِ
خَلَّابِلِ۔

التَّخْلِيْلُ: بِمَعْنَى الْاِحْلَالِ۔

الْمُحَلُّ: اُتْرْنَا۔ اُتْرَنِي كِي جگہ۔ حِ مَحَلُّ: جِ مَحَلُّ:
مِحْلُ. الَّذِيْنِ: اِدَا نَكْفِي قَرَضِ كَا وَ تِ كِيَا۔

السُّجَلُّ: فَا۔ رِجْلُ مُجَلِّ: حَرَمُ كِي پَرُوْدِي
كَرْنِي وَاَلَا۔

السَّخْلَةُ: اُتْرَنِي كِي جگہ۔ (السَّخْلِيْلَانِ)
بَانْدِي۔

السَّخْلَةُ: مَبْعُ۔ مَاءُ مُحَلِّلٌ: اُوْتُوْنِ كِي
اُتْرَنِي سِي گِدَا لِيَا سِي۔ مَكَانُ مُحَلِّلٌ: وَهُ
جگہ جہاں كَثْرَتِ سِي لُوْگِ اُتْرِي۔ رَوْضَةُ
اُو مَكَانُ مَحَلَّلٍ: بَاغُ يَا مَكَانُ جِھَاں كَثْرَتِ
سِي لُوْگِ اُتْرِي۔

حَلَاةُ (ف) خَلَا. بِالسَّيْفِ: لِكُوَارِي
مَارَنَا..... هِ بِالسُّوْطِ: كُوْرِي سِي مَارَنَا.....
بِهِ الْاَرْضِ: پِيْچھا رُو دِيَا۔ خَلَاةُ الشَّيْءِ: دِيَا۔
خَلَا الْجِلْدُ: كِهَالُ اُتْرَنَا (خَلَاةٌ وَ اُخْلَاةٌ)
كُوسِي كُو سَرْمِ يَا نَجْمِ لِكَانَا۔ خَلَاةٌ حَلْوَاءُ:
كُوسِي كِي لِيے سَرْمِ يَا نَجْمِ رُكْرُنَا۔

خَلِيٌّ (س) خَلَا. الْاَدِيْمُ: كِهَالُ اُتْرَتِي
بُوْنِي چھَرِي لُگ كَر خَرَابِ بُوْتَا۔ حَلِيْبِيْتِ
الشَّفَّةُ: بُوْتِ پَر چھَا ل پُر جَاتَا۔

خَلَاةُ تَخْلِيْفًا وَ تَخْلِيْفَةً. عَنِ الْمَاءِ:
دِشْكَارَنَا۔ پَانِي پَر اُتْرَنِي سِي رُو كِنَا..... هِ
الشَّيْءِ: دِيَا۔

السُّخْلُوْةُ وَ الْاِحْلَاءَةُ: سَرْمِ۔ چُزِي پَر كِي
جَمْلِي جِيْمِ كُو دِيَا بَاغُ اُتْرَتَا ہے۔ ہرُو دِي چُزِي جِيْمِ كُو
رُكْرُنَا كَر اَكْھِ مِيْنِ لُگَا يَا جَائِي۔

السَّخْلَةُ وَ السَّخْلِيْلَةُ وَ السَّخْلَةُ: چُزِي سِي
بَالِ۔ يَا چُزِي كَا سَا مِلِ وَا سِيَا سِي۔ السَّخْلِيْلُ:
چھَرِي لُگَا بُو اِچُزِي۔ السَّخْلَةُ: بَخَارُ كِي بَعْدِ
بُوْتُوْنِ پَر بَنْنِي وَاَلَا چھَا ل۔

السَّخْلَةُ: بِيْتِ زِيَا سَانِ پ۔
السَّخْلَةُ: مِصْ۔ بُو جَمْلِ۔ كِيَا جَاتَا ہے 'رِجْلُ
تَخْلِيْفَةً' بُو جَمْلِ مَرُو۔

السَّخْلَةُ وَ السَّخْلَةُ: چُزِي اِصَافِ كَرْنِي كِي
چھَرِي۔
خَلْبُ (ن ح) خَلْبًا وَ خَلْبًا وَ جَلْبًا

السَّخْلَةُ وَ السَّخْلَةُ: چُزِي اِصَافِ كَرْنِي كِي
چھَرِي۔
خَلْبُ (ن ح) خَلْبًا وَ خَلْبًا وَ جَلْبًا

السَّخْلَةُ وَ السَّخْلَةُ: چُزِي اِصَافِ كَرْنِي كِي
چھَرِي۔
خَلْبُ (ن ح) خَلْبًا وَ خَلْبًا وَ جَلْبًا

ہوئے جن میں سے وہ مادہ سے دودھ دھستا ہے اور نر کو بیچنے کے لئے لے جاتا ہے۔
المُحَلَّب: مددگار اور بقول بعض مددگار جو اپنی قوم کا نہ ہو۔

الجَلِيد: چھوٹا اونٹ۔ مَوْنُث حَلِيدَة۔
الجَلْبَس: بہادر۔

السَّجَلْبَس: کسی شے کو لازم ہو کر رہنے والا۔ شیر۔
الجَلْبَس: شیر۔

حَلَّتْ (ض) حَلَّتَا: الراس: موٹنا۔
الصَّوْف: نمک لگائے ہوئے چمڑے سے بال اکھیرنا۔ الدِّين: ادا کرنا۔

ظہر الخيل: چمڑے کے رہنا۔
بِسَلْبِهِ: پانچا نہ کرنا۔

المُخَلَّبَة: اون کا اکھیرتے وقت گرا ہوا۔
الأخَلَّت: وہ جس کا بال یا اون اکھیر دیا گیا ہو۔

الجَلْبِيَّت: بخ اولہ پالا۔
الجَلْبِيَّت والجَلْبِيَّت: بیگ۔
الجَلْبِيَّت: بیگ۔

خَلَج (ن ض) خَلَجًا: الخبزة: بیلین سے بڑھانا اور گول کرنا۔ فِي المَشِي: آہستہ آہستہ چلنا دوڑنے میں قدم کشادہ رکھنا۔

القَوْم لَيْلَتُمْ: چلنا۔ کہا جاتا ہے "نات القوم يَخْلَجُونَ لَيْلَتَهُمْ" قوم ساری رات چلتی رہی۔ خَلَج القَطْن: دھن کر بنولے نکالنا۔

صَفْت (ح ل ج) اور صَفْت مَفْعُولِي (خَلَجِيَج وَمَخْلُوج) الخَل: بننا۔ الرجل بالعصا: لاٹھی سے مارنا۔

تَحَلَّج: الخَلُوج: بادل کا پھلنا۔ صَدْرُه: ٹھکانا۔
إِخْتَلَج: حَقَّة لَبِنَا۔

الخَلْبَجَة والخَلْبَجَة: مسافت۔
الجَلْبَجَة: ذم سے کا پیش۔
الخَلُوج: چمکنے والا بادل۔

الخَلَج: بہت کھانے والے۔
الخَلْبَجَة: دودھ جس میں کھجور تر کی گئی ہو۔

السَّجَلْبَسَان: صبح شام۔ (چونکہ یہ دونوں اوقات دودھ دھنے کے ہیں۔)

المُحَلَّب: ایک درخت جس کے دانے خوشبودار ہوتے ہیں۔

الجَلْبِيَّة: بیتی۔ زچہ کی خوراک۔
السَّجَلْبِيَّة: زچہ کی خوراک۔ بکریوں کا ایک حصہ جو ریوڑ سے تلخ ہوا ہو جائے۔

الجَلْب: فاج۔ ج خلیہ۔
السَّجَالِبَة: تھن کے ارد گرد کی رگیں۔ ج

خَوَالِب خَوَالِب البئر: کنوئین کا سوت۔
خَوَالِب العَيْن: آنکھ کی وہ رگیں جن سے آنسو نکلتے ہیں۔

السَّجَالِبَان: دو رنگوں کا نام جن سے پیشاب گردے سے مٹانہ کی طرف آتا ہے۔
الجَلَاب: دودھ دھنے کا برتن۔

السَّجَالِب: بہت دھنے والا۔ "يَوْمُ خَلَاب" نمناک دن۔
السَّجَالِب والجَلْبَة: من الايل او الغنم: دودھ دینے والی اونٹنی یا بکری۔ دو ہی ہوئی۔

ج خَلْب وخَلَاب: الجَلَاب: جماعتیں۔ کسی شخص کے مددگار لوگ جو بیچا کی اولاد سے ہوں۔

السَّجَالِب: کالا رنگ۔ کہا جاتا ہے "اسود حلوب" بہت کالا۔
الجَلَاب: بخش و بیچ کی بیل۔

الجَلْب والجَلْبَان والجَلْبَاب والجَلْبُوب: مختلف نباتات کے نام۔
شَاة (تَخْلَابَة وَتَخْلَبَة وَتَخْلَبَة وَتَخْلَبَة وَتَخْلَبَة) حاملہ ہونے سے پہلے دودھ دینے والی بکری۔

السَّجَلْب: دودھ دھنے کا برتن۔ ج مَحَالِب۔
السَّجَلْب: دودھ دھنے کی جگہ۔ ج مَحَالِب: ایک قسم کا درخت جس کے بیج سے خوشبو حاصل کی جاتی ہے۔

المُحَلَّب: فاج۔ کہا جاتا ہے "فلان مُحَلَّب مُحَلَّب" یعنی فلاں شخص کے اونٹ بیچے

الشاة: دو ہٹا۔ کہا جاتا ہے "حَلْب الدهر اشْطَرَة" اس نے زمانے کے امور خیر و شر کو آزما یا (اشطر: اونٹنی کے تھن کے باکھ کو کہتے ہیں) کو "حَلْبَت بالساعد الاشد" جبکہ تم ایسے آدمی سے مدد لو جو تمہارے کام کو اچھی طرح انجام دے۔

"وَمَالُه حَلْبٌ وَلَا جَلْبٌ" اس کے لئے نہ اونٹیاں ہیں نہ اونٹ۔ حَلْب الرجل: زانو کے بل بیٹھنا۔

حَلْبٌ وَأَخْلَبٌ: الرجل: دوسرے کے لئے دو ہٹا۔ حَلْبَةٌ وَأَخْلَبَةٌ: دو ہٹے کے لئے دینا۔ حَلْب القَوْم حَلْبًا وَخَلُوبًا وَأَخْلَبُوا: ہر طرف سے مدد کے لئے جمع ہونا۔

حَلْب (س) حَلْبًا: الشعير: کالا ہونا۔
خَالِبِه: ساتھ مل کر دو ہٹنا (..... وَأَخْلَبِه) مدد کرنا۔

تَحَلَّبَ وَانْحَلَبَ: العرق او الدمع: بہنا۔
عَيْنُه: آنسو بہانا۔ فَمُه: تھوک پکاتا۔
إِخْتَلَبَ وَاسْتَحَلَبَ: دودھ نکالنا۔ إِخْتَلَبَ السَّاقَة: دو ہٹا۔ اسْتَحَلَبَ القَوْم: مدد کے لئے جمع ہونا۔

الجَلْب: جس (..... والجَلْب) دو ہٹا ہوا دودھ۔ کہا جاتا ہے "شربت حَلْبًا" میں نے تازہ دودھ پیا۔ گھور کی شراب۔ حَلْب الكرم: حَلْب العَصِير: شراب۔ کہا جاتا ہے "فذاقوا حَلْب امرهم" یعنی انہوں نے اپنے کام کے وبال کا مزہ چکھا۔ "وَذَمَّ حَلْبِيَّت" تازہ خون۔ کہا جاتا ہے "ساقَة (حَلْبِيَّت) رَكْبِيَّت" او (حَلْبِيَّت) رَكْبِيَّت" دودھ دینے والی اور سواری کے قابل اونٹنی۔

الجَلْبَة: ایک بار دو ہٹا۔ ایک دفعہ کی گھوڑوں کی دوڑ۔ کہا جاتا ہے "ثوبير كض في كل خَلْبَة من خَلْبَات المجد" وہ مجھ کو بزرگی کی ہر دوڑ میں دوڑتا ہے۔ الجَلْبَة: گھوڑے جو دوڑانے کے لئے جمع کئے جائیں۔ ج خَلْبَات وخَلَاب۔

ح ل خ	أَخْلَسْتُ السَّمَاءَ: لگا تار لگی بارش ہونا..... الأرض: سرسبز ہونا۔ أَخْلَسَهُ الخوف: خوف لازم کرنا۔ خَالَسَهُ: لازم ہونا۔ خَالَسَ البعير ثاٹ سے ڈھانپنا۔ أَخْلَسَ: سرخ مائل سیاہی ہونا۔ صفت (أخْلَس) مؤنث (خَلَسَاء) اِسْتَخْلَسْتُ: الأرض: سرسبز ہونا۔ البَيْتُ: زمین کو ڈھانپ لینا..... الليلي: سخت تاریک ہونا..... الخوف فلانًا: خوف کا لازم رہنا۔	ح ل خ ل ج المخلج والمخلج: روئی دھننے کا آلہ۔ بيلن۔ ح م خاليج ومخاليج. المخلج: لکڑی جس پر چرٹی ٹھوستی ہے۔ المخلج والمخلجة: وہ چیز جس پر روئی دھنی جائے۔ خَلَجَل: الشئ: حرکت دینا۔ ہٹنا..... القوم: قوم کو ان کی جگہ سے علیحدہ کر دینا۔ فَخَلَجَل: عن مكانه: حرکت کرنا۔ دور ہونا۔ ہٹ جانا۔ المخلج: سردار۔ بہادر۔ کامل۔ ح خلاجل: (انہی معانی میں مُخَلَجَل ومُخَلَجَل بھی ہیں۔) خَلَزَ (ن) خَلَزًا: الجِلْدَةُ او القَوْدُ: چھیلنا۔ فَخَلَزَ: الشئ: باقی رہنا..... القلب: دور مند ہونا..... اللامر: تیار ہونا..... بالمكان: اقامت کرنا۔ اخَلَزَ: منه حقه: لینا۔ الجلز: بخیل۔ بدخلق۔ پست قد۔ الو۔ ایک قسم کا غلہ۔ واحد (جلزة) الخلزون: ایک قسم کا آبی جانور جو پتلی میں ہوتا ہے۔ سگھ۔ الخلزونة: فی عرف الحدادين والنجارين: لوہاروں اور برہمنوں کے عرف میں بیچ دار کیل کو کہتے ہیں۔ شکل او خط (خلزونی) گھونٹنے کی بیٹ کی شکل۔
ح ل ف	أَخْلَفَ (ض) خَلْفًا وَجَلْفًا وَخَلْفًا وَمَخْلُوفًا وَمَخْلُوفَةً وَمَخْلُوفَاءَ: باللہ: قسم کھانا۔ أَخْلَفَهُ وَخَلْفَهُ: اِسْتَخْلَفَهُ: قسم کھانا۔ خَالَفَهُ مُخَالَفَةً: معاہدہ کرنا۔ خالف فلانًا حزنه: قسم کا لازم ہونا۔ تَخَالَفُوا: باہم عہد و پیمان کرنا۔ الخلف والجلف والاخلوفة: قسم۔ الجلف: مہص۔ عہد و پیمان۔ دوستی۔ دوست جو بے وفائی نہ کرنے کی قسم کھائے۔ ح ا خ ل ف کہا جاتا ہے "فلان خلف كذا" یعنی فلاں اس سے جدا نہیں ہوتا۔ الخلفاء: ایک یونٹی نو کیل جیسے کھجور کی شاخ پانی پیسنے کی جگہ آگتی ہے۔ واحد خلفة وخلفاء۔ الخلفاء: بہت پیچھے والی لوڈری۔ ح خ ل ف وخلف۔ ارض (خليفة ومخلفة) خلفاء: گھاس والی زمین۔ الخلفی: وہ جگہ جس میں خلفاء گھاس بہت آگے۔ الخلاف والخلافة: بہت قسمیں کھانے والا۔ الخليف: عہد و پیمان کرنے والا۔ لازم۔ سأخفی: کہا جاتا ہے "فلان خليف الجود" فلاں جود و بخشش کا حلیف ہے یعنی بڑا فیاض۔ "فلان خليف اللسان" فلاں چرب زبان فصیح ہے۔ ح خ ل ف۔ المخلف: شک کی چیز جس کے ثابت کرنے کے لئے قسم کی ضرورت ہو۔ کہا جاتا ہے "هذا غلام مخلف" یہ ایسا لڑکا جس کے اکتلام میں شک ہے۔	ح ل ط خَلَجَل: الشئ: حرکت دینا۔ ہٹنا..... القوم: قوم کو ان کی جگہ سے علیحدہ کر دینا۔ فَخَلَجَل: عن مكانه: حرکت کرنا۔ دور ہونا۔ ہٹ جانا۔ المخلج: سردار۔ بہادر۔ کامل۔ ح خلاجل: (انہی معانی میں مُخَلَجَل ومُخَلَجَل بھی ہیں۔) خَلَزَ (ن) خَلَزًا: الجِلْدَةُ او القَوْدُ: چھیلنا۔ فَخَلَزَ: الشئ: باقی رہنا..... القلب: دور مند ہونا..... اللامر: تیار ہونا..... بالمكان: اقامت کرنا۔ اخَلَزَ: منه حقه: لینا۔ الجلز: بخیل۔ بدخلق۔ پست قد۔ الو۔ ایک قسم کا غلہ۔ واحد (جلزة) الخلزون: ایک قسم کا آبی جانور جو پتلی میں ہوتا ہے۔ سگھ۔ الخلزونة: فی عرف الحدادين والنجارين: لوہاروں اور برہمنوں کے عرف میں بیچ دار کیل کو کہتے ہیں۔ شکل او خط (خلزونی) گھونٹنے کی بیٹ کی شکل۔ ح ل س (ض) خَلَسًا البعير: ثاٹ سے ڈھانپنا..... الرجل بالشئ: بہت ترس ہونا..... السماء: لگا تار نرم برسا۔ ح ل س (س) خَلَسًا وَخَلَسَ: بالمكان: کسی جگہ میں جم کر رہنا..... للامر: کسی کام کے لئے چکر لگانا۔ کہا جاتا ہے "ما تخلس منه بشئ وما تخلس شئاً" اس نے اس میں سے کچھ نہیں پایا۔ أَخْلَسَ الرجل: مفلس ہونا..... فلاناً فی البيع: نقصان پہنچانا..... عہد و پیمان کرنا۔
ح ل ق	أَخْلَسْتُ السَّمَاءَ: لگا تار لگی بارش ہونا..... الأرض: سرسبز ہونا۔ أَخْلَسَهُ الخوف: خوف لازم کرنا۔ خَالَسَهُ: لازم ہونا۔ خَالَسَ البعير ثاٹ سے ڈھانپنا۔ أَخْلَسَ: سرخ مائل سیاہی ہونا۔ صفت (أخْلَس) مؤنث (خَلَسَاء) اِسْتَخْلَسْتُ: الأرض: سرسبز ہونا۔ البَيْتُ: زمین کو ڈھانپ لینا..... الليلي: سخت تاریک ہونا..... الخوف فلانًا: خوف کا لازم رہنا۔ الجلس والجلس: ثاٹ۔ زمین یا کجاوہ کے نیچے بچھانے کا کپڑا۔ یعنی فرش کے نیچے بچھانے کا کپڑا۔ ح ا خ ل س وخلوس وجلسة. أخلاس الخيل: گھوڑوں پر ہی سوار ہونے والے اور کہا جاتا ہے "فلان جلس بيته" فلاں ہمیشہ اپنے گھر ہی میں رہتا ہے اور یہ عربوں کے نزدیک قابلِ خدمت ہے۔ "وهو جلس من أخلاس البلاد" یعنی وہ صاحبِ عزت و قوت ہے (اور یہ قابلِ مدح ہے) کو "كونوا أخلاس بنو قحتم" تم ہمیشہ خاندانین رہو "هذا ليس من أخلاس فلان" یہ فلاں کا کفو نہیں ہے۔ و"زفقت كذا ونقضت أخلاسه" یعنی میں نے اسے چھوڑ دیا۔ المجلس: عہد و پیمان۔ جوئے کا چوتھا تیر۔ سردار۔ بہادر۔ أم جلس: گدی۔ المجلس: مہص۔ عہد و پیمان۔ المجلس: بہادر۔ حرلیس جو اپنی جگہ سے جدا نہ ہو۔ سرخ سیاہی مائل۔ خَلَطَ (ن) جَلَطًا: قسم کھانا..... فی الامر: اصرار کرنا اور جلدی کرنا۔ غضب ناک ہونا۔ خَلَطَ (س) خَلَطًا وَاخْتَلَطَ: عليه: غضب ناک ہونا..... منہ: زنج ہونا۔ أَخْلَطَ: بمعنی خلط..... غضب ناک کرنا..... بالمكان: اقامت..... فی اليمين: کوشش کرنا۔	ح ل ق أَخْلَسْتُ السَّمَاءَ: لگا تار لگی بارش ہونا..... الأرض: سرسبز ہونا۔ أَخْلَسَهُ الخوف: خوف لازم کرنا۔ خَالَسَهُ: لازم ہونا۔ خَالَسَ البعير ثاٹ سے ڈھانپنا۔ أَخْلَسَ: سرخ مائل سیاہی ہونا۔ صفت (أخْلَس) مؤنث (خَلَسَاء) اِسْتَخْلَسْتُ: الأرض: سرسبز ہونا۔ البَيْتُ: زمین کو ڈھانپ لینا..... الليلي: سخت تاریک ہونا..... الخوف فلانًا: خوف کا لازم رہنا۔ الجلس والجلس: ثاٹ۔ زمین یا کجاوہ کے نیچے بچھانے کا کپڑا۔ یعنی فرش کے نیچے بچھانے کا کپڑا۔ ح ا خ ل س وخلوس وجلسة. أخلاس الخيل: گھوڑوں پر ہی سوار ہونے والے اور کہا جاتا ہے "فلان جلس بيته" فلاں ہمیشہ اپنے گھر ہی میں رہتا ہے اور یہ عربوں کے نزدیک قابلِ خدمت ہے۔ "وهو جلس من أخلاس البلاد" یعنی وہ صاحبِ عزت و قوت ہے (اور یہ قابلِ مدح ہے) کو "كونوا أخلاس بنو قحتم" تم ہمیشہ خاندانین رہو "هذا ليس من أخلاس فلان" یہ فلاں کا کفو نہیں ہے۔ و"زفقت كذا ونقضت أخلاسه" یعنی میں نے اسے چھوڑ دیا۔ المجلس: عہد و پیمان۔ جوئے کا چوتھا تیر۔ سردار۔ بہادر۔ أم جلس: گدی۔ المجلس: مہص۔ عہد و پیمان۔ المجلس: بہادر۔ حرلیس جو اپنی جگہ سے جدا نہ ہو۔ سرخ سیاہی مائل۔ خَلَطَ (ن) جَلَطًا: قسم کھانا..... فی الامر: اصرار کرنا اور جلدی کرنا۔ غضب ناک ہونا۔ خَلَطَ (س) خَلَطًا وَاخْتَلَطَ: عليه: غضب ناک ہونا..... منہ: زنج ہونا۔ أَخْلَطَ: بمعنی خلط..... غضب ناک کرنا..... بالمكان: اقامت..... فی اليمين: کوشش کرنا۔

(حَلَقِي)..... الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا: ایک دوسرے کو لٹ کرنا۔

حَلَقِي (س) حَلَقًا: حلق کے درد والا ہونا۔

حَلَقِي الراس: موٹنا (تشدید کثرت کے لئے ہے)..... الطائِرُ: اڑنے میں چکر لگانا..... القَمَرُ: ہالہ پڑنا..... الشَّيْءُ: حلقہ کی مانند بنانا۔

..... الاناءُ مِنَ الشَّرَابِ: بھرتا۔

الحوض: خشک ہونا..... عَيْنُ الحَيوانِ: دھنس جانا..... النَجْمُ: بلند ہونا..... ضَرَعُ الناقةِ: دودھ کا خشک ہو جانا۔

أَحَلَقِي. الاناءُ أَوْ الحوضُ: بھرتا۔

تَحَلَقِي. القومُ: حلقہ بنا کر بیٹھنا..... القَمَرُ: ہالہ پڑنا۔

إِحْتَلَقِي. الراسُ: موٹنا۔

التَّحَلُّقُ: مَصٌّ - ۱۔ حِ اَخْلَاقٌ وَحُلُوقٌ وَحُلُقٌ. حُلُوقٌ. حُلُوقٌ. الارضُ: تالیاں۔ وادیاں۔ کہا جاتا ہے "أَخَذُوا فِي حُلُوقِ الطَّرِيقِ" انہوں نے تنگ راستے اختیار کئے۔ التحلقُ: بدبختی۔

التَّحَلُّقَةُ: ہر گول چیز۔ زرہ۔ رسی۔ حِ حَلَقٌ وَحَلَقَاتٌ. وحلقة القوم: قوم کا دائرہ..... کہا جاتا ہے "سَأَلَهُ فِي حَلَقَتِهِ" اس نے اس سے مانگا جبکہ وہ مانگنے والوں کے حلقہ میں تھا۔

حلقة الحوض: حوض کا بھرتا۔

حَلِيقَةُ. البابِ أَوْ القومِ: دروازہ کا حلقہ یا قوم کا دائرہ۔

الحلقُ: بادشاہ کی انگوٹھی بغیر گیند کی انگوٹھی۔ بہت موٹی۔

الحلقُ: بے ہالہ کا۔ راسُ حَلِيقٌ: بے ہالہ کا سر۔

الحلاقُ وَحَلِيقٌ: بروزن نظام مبنی علی اَکسر معدول از ساققة: موت۔

الحلاقُ: گلا۔

الحلاقُ وَالحولِيُّ: گلے کا درد۔

الحلاقُ: نانہی حجام۔

الْحَلَاقَةُ: موٹے ہوئے ہال۔ الْحَلَاقَةُ: نانہی کا پیشہ۔

الحخالقُ: فاحِ حَلِيقَةٌ..... مِنَ الجبالِ:

بلند پہاڑ جس میں پیداوار نہ ہو۔ کہا جاتا ہے "جاء مِنَ خالِقٍ" وہ بلند جگہ سے آیا "هوِي مِنَ خالِقٍ" وہ اونچی جگہ سے گرا یعنی ہلاک ہو گیا۔ "ضرع خالق" بھرا ہوا تھن۔ پیٹ سے سنا ہوا تھن (ضد) حِ حُلُقٌ وَحَوَالِقُ.

الحالِيقَةُ. الحالقُ: کا موٹ۔ موت۔ برا قول۔ سخت سال۔ حِ حَوَالِقُ.

الحالِيقُ: موت۔

الحالِيقَةُ. مِنَ السِوْفِ أَوْ الرِجالِ: تیز۔

الحولِيُّ وَالحَيْلِيُّ: بلا و مصیبت۔

الحَوْلِيقَةُ "لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ" کہا۔

الحَلِيقُ: موٹا ہوا۔ کہا جاتا ہے "شعر حَلِيقٌ وَلِحْيَةٌ حَلِيقٌ" موٹا ہوا بال موٹری ہوئی داڑھی۔ حِ حَلِيقِي المِخْلَقُ: اُستِزہ۔ سخت کھیل۔

المِخْلَقُ: بدخو۔

حَلَقَمَهُ: گلا کاٹا۔

الحَلَقُومُ: گلا۔ حِ حَلِيقِي.

حَلِيقٌ (س) حُلُوقَةٌ وَحَلِيقَةٌ وَحُلُوقٌ وَحُلُوقٌ: حِلْكَتُكَ وَحِلْكَتُكَ: سخت سیاہ ہونا۔

صفت (خالک و خلیک)

الحَلِکُ وَالحَلِکَةُ: سخت سیاہی۔ الحَلِکَةُ وَالحَلِکَاءُ وَالحَلِکَاءُ وَالحَلِکَاءُ: الحَلِکِيُّ وَالحَلِکِيُّ.

الحَلِکُوكُ وَالحَلِکَلِکُ: سخت سیاہ۔ الحَلِکِمُ: سیاہ۔

الحَلِکِمَةُ: سیاہی۔

حَلَمٌ (ن) حَلَمًا وَحَلَمًا: فی نومہ: خواب دیکھنا۔ کہا جاتا ہے "حَلَمْتُ وَحَلَمْتُ بِهِ" اس نے اس کو خواب میں دیکھا۔ حَلَمٌ 'اصْبِي' (اِخْتَلَمْتُ) بالغ ہونا۔ (..... حَلَمًا)

المِجْلَدُ: کپڑے نکالنا۔

حَلَمٌ (ک) حَلَمًا: درگزر کرنا۔ بردبار ہونا۔ صفت (حَلِمٌ) حِ حَلَمَاءُ وَأَحْلَامٌ: موٹت حَلِمَةٌ.

حَلِمٌ (س) حَلَمًا. المِجْلَدُ: خراب ہونا اور کپڑے پڑنا۔ صفت (حَلِمٌ وَحَلِمٌ) أَحْلَمْتُ. المِراةُ: حَلِمٌ وَحَلِمٌ: حَلَمَةٌ تَحَلِمًا وَجَلَمًا: بردبار بنانا۔ حَلَمٌ المِجْلَدُ: کپڑے نکالنا..... القِربَةُ: بھرتا۔

تَحَلَمٌ: بردبار بننا..... الحَلِمُ: بردباری سے کام لینا..... الرِجْلُ: موٹا ہونا۔ تَحَلَمْتُ القِربَةُ: پانی سے بھر جانا۔

تَحَلَمٌ: تکلف سے بردباری ظاہر کرنا۔

إِحْتَلَمْتُ وَإِحْتَلَمْتُ: فی نومہ: خواب دیکھنا۔

الحَلِمُ: صبر و آہستگی۔ بردباری اور کبھی جہل و بے وقوفی کے مقابلہ میں آتا ہے جیسے "وَأَنَّ سَفَاةَ الشَّيْخِ لِاحْتِلَمِ بَعْدَهُ" عقل۔ حِ

أَحْلَامٌ وَحُلُومٌ: کہا جاتا ہے "تَسَامَرُ هُمْ أَحْلَامُهُمْ بَهْدًا" ان کی عقلیں اس کا حکم دیتی ہیں۔

الحَلِمُ: مَصٌّ - خواب۔ حِ أَحْلَامٌ اور کہا جاتا ہے "هَذِهِ أَحْلَامُ لَيْلِي" یہ جھوٹی آرزوئیں ہیں۔

الحَلِمَةُ: سرپٹاں۔ ایک قسم کا کپڑا جو چمڑے میں لگ جاتا ہے اور اس کو خراب کر دیتا ہے۔ حِ حَلَمٌ.

الحَلِيمُ: اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے۔ موٹائی کی چربی۔

حَلَا (ن) وَحَلُو (ک) وَحَلِي (س) حَلَاوَةٌ وَحَلْوَانًا: بیٹھا ہونا..... الفَاكِهَةُ: پختہ ہونا حَلَالَةُ الشَّيْءِ: لذیذ ہونا۔ صفت (حَلُو) اور کہا جاتا ہے "حَلِي فِي عَيْنِي وَبِعَيْنِي" وہ میری آنکھوں میں بھلا معلوم ہوا۔ حَلَامَنَهُ بِخَيْرٍ: خیر و منفعت حاصل کرنا۔

حَلَاةُ (ن) وَحَلُو أَوْ حَلْوَانًا: تھوڑا پورا مہر وصول کرنے کی شرط پر لڑکی یا عورت کی شادی کرنا و حَلَاةٌ كَثْرًا أَوْ بَعْدًا: دینا کہا

جاتا ہے "حلاہ حلوانہ" اس نے اسے بدلہ دیا۔

(..... وَحَلِيٌّ) الشَّيْءُ (تَحْلِيَّةٌ) مِثْلُهَا بَنَانَا۔
(حَالِيٌّ) مُحَالَاةُ الرَّجُلِ: خَوْشٌ طَبْعِيٌّ كَرِيمًا۔
أَحْلَاهُ إِخْلَاءً: مِثْلُهَا بَنَانَا يَأْتِيهَا بَنَانَا۔ كَمَا جَاءَتْ
عَنْ "مَائِمِرٌ وَلَا يُحْلِي" يَعْنِي وَهْ نَكْرُوزِي
بِأَيْسٍ كَرِيمًا هَيْ نَشِيئِي بِأَيْسٍ نَهْ أَجْمَا كَامُ كَرِيمًا
هَيْ نَهْ بَرَا۔

تَحَلَّتِ السَّمْرَاءُ: زِيورِ پَہننا۔ کَہا جاتا ہے
"تَحَلَّتِي فَلَائِقٌ بِمَا لَيْسَ فِيهَا" فَلَائِقٌ نَے
اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے آراستہ کیا جو
اس کے اندر نہیں ہیں۔

تَحَلَّتِي وَاحْلُولِي وَاسْتَحَلَّتِي الشَّيْءُ: مِثْلُهَا
بَنَانَا۔ وَاحْلُولِي الشَّيْءُ: مِثْلُهَا هُونَا۔

تَحَالِي: حَلَاوَتٌ ظَاهِرَةٌ كَرِيمًا۔
الْحَلُوُّ: مِثْلُهَا لَذِيذٌ خَوْشُكَوَارٌ خَوْبِصُورَتٌ۔

الْحَلْوَانُ: دَلَالٌ وَهْ بَنَانُ لِي أَجْرَتٌ مَهْرٌ
بَدَلٌ۔

الْحَلَاوَةُ وَالْحَلَاوَةُ وَالْحَلَاوَةُ
وَالْحَلَاوِيُّ: مِثْلُهَا قَفَاءٌ كَدْنِيٌّ كَادِرْمِيَانِي
حَصَّةٌ۔ جَ حَلَاوِيٌّ۔

الْحَلْوَاءُ وَالْحَلْوِيُّ: حَلْوَاوَةٌ مِثْلُهَا مِيوَةٌ۔ جَ
حَلَاوِيٌّ۔

الْحَلْوَانِيُّ: حَلْوَاوَةٌ مِثْلُهَا بَنَانَا وَاللَّوَا
الْحَلْوِيُّ: مِثْلُهَا رَجَالٌ: دِي كَيْفِي مِثْلُهَا مَعْلُومٌ
هُونَا وَاللَّوَا۔

الْحَلِيٌّ: لَذِيذٌ أَوْ مِثْلُهَا نَاقَةٌ حَلِيَّةٌ۔
حَلِيٌّ (مِثْلُهَا) حَلِيًّا: الْمَرْأَةُ: عَمْرُوتٌ كَلِيَّةٌ
زِيورِ بَنَانَا۔ آراستہ کرنا۔

حَلِيَّتٌ (س) حَلِيًّا: الْمَرْأَةُ: زِيورِ پَہننا۔
صَفَتْ (حَالٌ وَحَالِيَّةٌ) جَ حَوَالٌ: كَمَا جَاءَتْ
عَنْ "شَجَرَةٌ حَالِيَّةٌ" يَتِي وَاللَّوَالِجِلُّ وَار

دَرِخْتٌ۔ حَلِيٌّ مِثْلُهَا بَخِيْرٌ خَيْرٌ وَنَفْعَةٌ
پَہنچانا۔

حَلِيٌّ تَحْلِيَّةٌ: الْمَرْأَةُ: زِيورِ پَہننا يَازِيورِ
بَنَانَا۔

وَحَلِيٌّ الشَّيْءُ: آراستہ کرنا۔

تَحَلَّتِي: آراستہ ہونا يَازِيورِ پَہننا۔

الْحَلِيٌّ: پَنجِيَاں جَوِجِيوں كَے مَنَدِ مِثْلُهَا
ہیں۔

الْحَلِيٌّ جَ حَلِيٌّ وَحَلِيٌّ وَحَلِيٌّ (وَالْحَلِيَّةُ) جَ حَلِيٌّ
وَحَلِيٌّ (خِلَافُ قِيَاسٍ) زِيورِ۔ جَلِيَّةٌ

الانسان: انسان سے جو رنگ اور ہیئت
دکھائی دے۔

الْحَلِيٌّ: حَشَكٌ۔

حَمٌّ (ن) حَمًّا: التَّنَوُّزُ: گرم کرنا۔

الشَّحْمَةُ: پَکھلانا..... الْمَاءُ: گرم کرنا
..... الْاَزْتِحَالُ: جلدی کرنا۔ حَمٌّ اللّٰهُ لَهْ

كَمَّا: مَقْدَرٌ كَرِيمًا..... الْاَمْرُ فَلَائِقًا: غَمٌّ مِثْلُ
ذُنَانَا۔ كَمَا جَاءَتْ عَنْ "جَمٌّ حَمَّةٌ" اس نے اس

کے ساتھ اس جیسا قصد کیا۔

حَمٌّ. الْاَمْرُ: فِعْلًا كَمَا جَاءَتْ..... الشَّيْءُ: قَرِيبٌ
هُونَا..... الرَّجُلُ: بَخَارُ زَوْهٌ هُونَا..... لَهُ كَمَّا:
مَقْدَرٌ كَمَا جَاءَتْ۔

حَمَّةٌ (ن) حَمَمًا: كَالَا هُونَا..... الْمَاءُ: گرم
ہونا۔

حَمَمٌ. الْغَلَامُ: سَبْرَةٌ آفَازٌ هُونَا..... الرَّاسُ:
مَوْئِدٌ نَے كَے بَعْدِ بَالٍ نَفْتَانَا..... الْمَكَانُ:

رَوْنِيْدِي ظَاهِرٌ هُونَا..... الشَّيْءُ: كَالَا كَرِيمًا
..... الْمَاءُ: گرم کرنا..... الرَّجُلُ: كَوْنِي كَے
سے مَنَدِ كَالَا كَرِيمًا۔

..... الْمَرْأَةُ: طَلَاقٌ كَے بَعْدِ مَنَدِ كَے كِزْرَے
دینا۔

أَحْمَةُ النَّسَبِ: بَخَارٌ مِثْلُهَا كَرِيمًا۔ أَحْمٌ
الشَّيْءُ: قَرِيبٌ هُونَا..... الْمَكَانُ: بَهْتٌ بَخَارٌ

وَالِيٌّ جَدٌّ هُونَا..... الْمَاءُ: گرم کرنا..... اللّٰهُ لَهْ
كَمَّا: مَقْدَرٌ كَرِيمًا..... الشَّيْءُ: كَالَا كَرِيمًا.....

الْاَمْرُ فَلَائِقًا: غَمٌّ مِثْلُ ذُنَانَا۔

تَحَمُّمٌ: كَالَا هُونَا۔

إِحْتَمَمٌ: تَمَكِّنٌ هُونَا۔ غَمٌّ كِي وَجِدٌ سَے نَهْ هُونَا.....
الْعَيْنُ: بَغِيْرُ دَرَدِ كَے بَعْدِ اَرَدِ پَہننا۔

اسْتَحَمَّ: پَانِي سے تَمَسُّلُ کرنا۔ حَمَامٌ مِثْلُهَا
ہونا۔ پَہننا وَاللَّوَا۔

الْحَمُّ: مِثْلُهَا۔ حَمٌّ الظَّهِيْرَةُ: دُو پَہرِ كِي سَخْتِ

گرمی۔ کَہا جاتا ہے "مَسَالَةُ حَمٍّ عَنْ ذَلِكِ
اَوْ مَسَالَةُ" اس کے لئے اس سے کوئی چارہ
نہیں۔ حَمُّ الشَّيْءِ وَحَمُّهُ) حَمٌّ كَبْرًا حَصَّةٌ۔

الْحُمَّى: بَخَارٌ۔ جَ حَمِيَّاتٌ۔

الْحَمَّةُ: گرم پانی کا پَہننا۔

الْحَمَّةُ: سِيَاہِي۔ سَبْرِي اَوْ سِيَاہِي كَے دَرْمِيَانِ
رَنگ۔ بَخَارٌ۔ ہر مَقْدُورٌ وَفِعْلٌ شَدِيدٌ حَمٌّ اَوْ

اس سے ہے "حَمَّةُ الْفِرَاقِ" کَہا جاتا ہے
"عَجَلْتُ بِنَادِيكُمْ حَمَّةُ الْفِرَاقِ" مَقْدَرٌ

شَدِيدٌ فِرَاقٌ نَے تَمہاری مَجْلِسِ كَے سَاثَہ جَلْدِي
كِي۔ جَ حَمَمٌ وَحَمَامٌ۔

الْحَمَمٌ. حَمَّةٌ: كِي جَمْعٌ۔ كَوْنِي۔ رَاكُہ۔ ہر وہ
چیز جو آگ مِثْلُهَا جَل جَانے۔ وَاحِدٌ (حَمَمَةٌ)

الْحَمَّةُ: مَوْتٌ۔ پَہننا۔

الْحَمَامُ: كَبُوْرٌ۔ وَاحِدٌ (حَمَامَةٌ) اَوْ كَمَا جَاءَتْ
ہے كَے حَمَامَةٌ كَالَا طَلَاقٌ زَوْا دہ دونوں پر

ہوتا ہے۔ اس لئے كَے اس مِثْلُهَا "تَا" تَانِيْتِ
كَے لئے نہیں بلکہ تائے وحدت ہے اور

بسا اوقات حَمَامٌ مَفْرُوكَے لئے بھی بولتے ہیں
۔ جَ حَمَامِيْمٌ وَحَمَامَاتٌ حَمَامٌ الزَّاجِلِ

اَوْ الزَّجَالِ: پِيْغَامٌ وَخَطُوْتُ لَے جَانے والے
كَبُوْرٌ۔

سَاقِي الْحَمَامِ وَرَعِي الْحَمَامِ: دَرَمٌ كَے
گھاس كَے تَامٌ۔ بَيْضُ الْحَمَامِ: اَنگُورِ كِي

ایک قسم جس كَے دانے بڑے ہوتے ہیں۔
عِنَقُ الْحَمَامِ: اِيك قسم كَارَنگِ جُو سَرخِ اَوْ

نِيلِي كَے دَرْمِيَانِ ہوتا ہے۔

الْحَمَامُ: مَوْتٌ۔

الْحَمَامُ: جَانُورُوں خُصُوصًا گھوڑوں كَا بَخَارٌ۔
سَرْدَارِ شَرِيْفٌ۔

الْحَمَامِيُّ: اِيك قسم كِي گھاس۔ كَمَالِ كِي
سَرخِي۔

الْحَمَامُ: تَمَسُّلُ كَرْنِي كِي جَدٌّ۔ يَدِ بَكْرَتِ
مَوْنَتِ سَتَمَعْلُ ہوتا ہے اَوْ كَمِثْلِي نَدْرُكِي۔ جَ

حَمَامَاتٌ۔

الْحَمَامِيُّ: حَمَامٌ وَاللَّوَا۔ حَمَامٌ كَا تَمَكِّنَانِ۔

الْحَمَامَةُ: اِيك خاص لوگ۔ عَمْرُوْةٌ اَوْ نَتٌ۔

الحَمِيم: قرہمی رشتہ دار۔ دوست۔ ح
 اِحْمَاء: گرم پانی۔ سُندھ پانی۔ چنگاری جس
 سے دھونی دی جائے۔ ح حَمَائِم: الحَمِيم:
 گرمی۔ پسینہ۔ سخت گرمی کے بعد بارش۔ کہا
 جاتا ہے "هو حَمِيمٌ بِالْحَاجِبَةِ" وہ حاجت
 پرفریفت ہے۔
 الحَمِيمَةُ: حمیم: کاموٹ۔ گرم پانی۔
 گرم کیا ہوا دودھ۔ عمدہ نسل کا اونٹ۔ ح
 حَمَائِم:
 الاِحْمُ: بہت خاص و بہت قرہمی۔ کالا۔ سفید
 (شد) بے پھل کا تیر۔ ح حَمُ:
 المِحْمُ: پانی گرم کرنے کا برتن۔
 السُّحْمُ: قریب۔
 المُحَام: ثابت۔
 المُحْموم: بخار والا۔ مقدر۔ کہا جاتا ہے
 "نزل به القضاء المُحْمومُ" اس پر قضاء
 مقدر کا نزول ہوا۔
 المُسْتَحْمُ: غسل کرنے کی جگہ۔
 حَمًا (ف) حَمًا البئر: کنوئیں سے کچھ
 نکالنا۔
 حَمِي (س) حَمًا و حَمًا الماء: پانی میں
 کچھ زلی ہوئی ہوتا۔ صفت۔ حَمِي:
 اَحْمًا البئر: کنوئیں میں کچھ ڈالنا۔
 الحَمَاء والحَمَاء والحَمو والحما
 بلاهزمة: عورت کا خسر۔ شوہر کی جانب
 سے عورت کا رشتہ دار جیسے دیور۔ جیسے۔
 خسر۔
 الحَمَاء والحَمَاء: کچھ۔
 حَمَتَهُ (ض) حَمًا اللہ علیہ:
 حَمِي (س) حَمًا الجوز وغيره:
 اخروٹ وغیرہ کا خراب ہونا۔
 حَمْت (ك) حَمُوْتَةُ اليوم: دن کا سخت
 گرم ہونا۔
 تَحَمَّت. اللون او الطعم: رنگ یا مزہ
 صاف اور خالص ہونا۔
 الحَمْت: مصل۔ یوم حَمْت: سخت گرم
 دن۔ حَمْر (حَمْت و حَامِي) بہت مٹیسی

حَمْر۔
 الحَمِيْت. من اللون او الطعم: خالص و
 صاف رنگ یا مزہ۔ کہا جاتا ہے "تَمْر
 حَمِيْت و غَسَل حَمِيْت" اچھے رنگ والی
 کھجور۔ خالص شہد۔ غَضَب حَمِيْت: سخت
 غصہ۔
 حَمَحَت. العين: آنکھ کا اندر کو دھنس جانا۔
 حَمَج الوجع: چہرہ کا غصہ وغیرہ سے بدلنا۔
 حَمَج اليه: تیز نظر سے دیکھنا۔ عينه: شور
 کر دیکھنا۔
 الحَمُوج: ہرن وغیرہ کا چھوٹا بچہ۔
 حَمَحَم و تَحَمَحَم. البرئون او الفرس:
 بڑھانا۔ تَحَمَحَم: کالا ہونا۔
 الحَمناجم: پوڑے پتے کا پودینہ۔ واحد
 (حَمناجم)
 الحَمجم و الحَمجم: ایک قسم کا پرندہ گاؤ
 زبان۔ واحد (حَمجم و حَمجم)
 حَمِدَة (س) حَمَدًا و مَحْمَدًا و مَحْمَدًا
 و مَحْمَدَةً و مَحْمَدَةً: فضیلت کی بنا پر
 تعریف کرنا۔ ہ علی امر: بدل دینا۔
 الشئى: قابل تعریف پانا اور کہا جاتا ہے
 "حَمِدْت اليك اللہ" یعنی تیرے ساتھ
 اللہ کی تعریف کرتا ہوں یا تیرا شکر یہ ادا کرتا
 ہوں اور اس کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کا بھی۔
 حَمَد. اللہ: بار بار تعریف کرنا اور الحمد للہ
 کہنا۔
 اَحْمَد: قابل تعریف کام کرنا۔ الشئى:
 قابل تعریف ہونا۔ الشئى: قابل تعریف
 پانا۔ ہ: فعل پر راضی ہونا۔ تعریف کا حقدار
 ظاہر ہونا۔
 تَحَمَد. بالشئى على فلان: احسان جتانا
 اور کہا جاتا ہے "يَحْمَدُ الناس بفضله"
 یعنی ان کے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ وہ محمود
 ہے۔
 اسْتَحَمَد. اللہ الہی خلقه: مخلوق کو انعام و
 احسان کر کے اپنی حمد کی جانب بلانا۔
 الحَمْد: مصل۔ تعریف۔ تعریف کیا ہوا۔ کہا

جاتا ہے "رجل حَمَد و امرأة حَمَدَة"
 تعریف کیا ہو مرد تعریف کی ہوئی عورت۔
 حَمَاد له: بھٹسی حمد اللہ۔
 الحَمَاد: غایت۔ انتہائی کوشش۔ کہا جاتا ہے
 "حَمَادُك او حَمَادَاك ان تفعل كذا"
 تمہاری انتہائی کوشش یہ ہے کہ تم ایسا کرو۔
 الحَمَاد و الحَمَدَة: بہت تعریف کرنے
 والا۔
 المُحَمَدَة: قابل تعریف کام۔ ح حَمَاد:
 المُحَمَد: بہت عمدہ خصلتوں والا۔ نبی
 کریم ﷺ کا اسم گرامی۔
 الحَمِيد و الحَمُود: تعریف کرنے والا۔
 تعریف کیا ہوا۔ مَوْن حَمِيدَة:
 الحَمَدَة: بہت تعریف کرنے والا۔
 حَمَدَة النار: آگ کے شعلے کی آواز۔
 حَمْر (س) حَمْرًا الفرس: بد قسمی والا
 ہوتا یا بد بودار منہ والا ہوتا۔ صفت (حَمْر)
 الرجل: غصہ سے بھڑک اٹھنا۔
 حَمْر. الجلد: بڑی دباغت دینا۔ الشئى:
 سرخ رنگنا۔ ہ: کسی کو اے گدھے کہنا۔
 اَحْمَر: سرخ بچہ والا ہونا۔ الدابة: چارہ
 دینا یہاں تک کہ منہ بد بودار ہو جائے۔
 اَحْمَر اَحْمَرًا: سرخ ہونا۔
 اَحْمَار اَحْمَرًا: بتدریج بہت سرخ ہونا۔
 اِنْحَمَر. ما على الجلد: کھر چا جانا۔
 الحَمْر: ایک قسم کی رال جس کو عوام
 الحَمْر: کہتے ہیں (..... والحَمْر) ایک
 سرخ رنگ کا پرندہ واحد (حَمْر و حَمْرَة)
 الحَمْرَة: سرخ رنگ۔ ایک قسم کی وبائی
 بیماری جس کی وجہ سے بخار آتا ہے اور بدن
 پر سرخ رنگ کے دانے پڑ جاتے ہیں۔
 حَمِيْتَة الحَمْر: ایک قسم کا زہریلا پودہ۔
 الحَمَار: گدھا۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ اہلی
 اور جنگلی۔ اسی وجہ سے جنگلی کو حمار وحش
 و حمار الوحش والحمار الوحشى کہتے
 ہیں۔ ح حَمِير و اَحْمَرَة و حَمْر و حَمُور
 و حَمَرَات: حَمَارَة حَمَانِو۔

حمارۃ القدم: پشت قدم۔ اذن الحمار وقضاء الحمار: دو پودوں کے نام۔ حمار الزرد: ایک قسم کا جنگلی سفید گدھا جس پر سیاہ دھاریاں ہوتی ہیں۔ الحمارۃ: گرمی کی شدت۔ ج حمار۔ الحمارۃ: گدھے والے۔ واحد حمار: جیسے جمال و بغال: دوغلا گھوڑا۔ الاحمر: جس کا رنگ سرخ ہو۔ ج آخامیر: سرخ رنگ سے رنگا ہوا۔ ج حمر وحمران: سونا۔ زعفران گوشت۔ شراب: کہتے ہیں "نحس من اهل الاسودین لامن اهل الاحمرین" ہم کھجور اور پانی والے ہیں۔ گوشت اور شراب والے نہیں۔ الموت الاحمر: قتل۔ کنایہ ہے خون بہنے یا تخت موت سے۔ الاحمر: الاحمر: کاموٹ۔ تخت سال۔ گرمی کی شدت۔ الحمراء أو القلعة الحمراء: غرناطہ کا ایک مشہور قلعہ جو مسلمانوں کے دور حکومت کی یادگار ہے اور جس کے اندر ایک عجیب مادہ روزگار مثل ہے۔ الحمراء: تین لکڑیاں جن کو آپس میں باندھ کر دودھ کا مشینہ یا پانی کی صراحی وغیرہ رکھ دیتے ہیں اور اس کو الحمائر: بھی کہتے ہیں۔ الاحمری: تخت سرخ۔ الجبر: گرمی کی تخت شدت۔ بر آدمی۔ غیت حبر: تیز بارش۔ الحمرۃ: ایک قسم کا پرندہ۔ المخمر: کھال صاف کرنے کا آلہ۔ کجوس ج مخامر: المخمر: دوغلا گھوڑا۔ المخمر: سرخ۔ ایک قسم کا پرندہ اور بقول بعض گورخر۔ حمر (ض) حمرًا: الخروال للسان: چہرہ پر اہٹ ڈالنا۔ الشفرة: تیز کرنا۔ حمر (ک) حمرًا: تخت ہونا۔ الشراب: چہرہ پر اہٹ ڈالنے والی ہونا۔ الحامز: فا۔ حامز القواد: تیز فہم عقلمند۔	الحمير: سخت۔ ذکی۔ تیز فہم۔ حمرہ (ض) حمرًا: غضبناک کرنا۔ اللحم: بھوننا۔ حمر (س) حمرًا: دین یا جنگ میں سخت ہونا۔ دلیر ہونا۔ صفت (حمر) حمر الوحشی: گھسان کی جنگ ہونا۔ الامر: سخت ہونا۔ حمر (ن) حمرًا: حمرًا: حمر (ض) حمرًا: دلیر ہونا۔ حمرہ وأحمرہ: جوش دلانا۔ غضب ناک کرنا۔ الدواء ونحوہ: نیم گرم ہونا۔ تحمر: جوش میں آنا۔ غضبناک ہونا۔ سخت ہونا۔ نافرمانی کرنا۔ إحمر: جوش میں آنا۔ إحمر القرنان: باہم جنگ کرنا۔ تحامر: القوم: ایک دوسرے پر حملہ کرنا اور جنگ کرنا۔ الحماس: سختی۔ منع۔ جنگ کرنا۔ الحماسة: معاملہ میں سختی۔ دلیری۔ الاحمر: دین یا جنگ میں سخت دلیر۔ موٹ حمرًا: ج حمر و أحمر۔ سنۃ حمرًا: سخت سال۔ سنون أحمر حمر: بہت سے سخت سال۔ الحمر: سخت جگہیں۔ الحمسة: بھوننا ہوا۔ الحمیر: دلیر۔ سخت۔ تنور۔ الحمس: آواز۔ کجاوہ کا گھنڈ۔ الحمسة: عزت۔ الحمسة: ایک قسم کا دریائی جانور۔ کچھوا۔ ج حمر۔ حمرہ (ن) حمرًا: غضبناک کرنا۔ جوش دلانا۔ حمر الشی: جمع کرنا۔ القوم: غصہ سے چلانا۔ حمر (ض) حمرًا: وحمرًا (ک) حمرًا: الساق: ہار یا ہونا۔ حمر (ض) حمرًا: وحمرًا: وحمرًا غصہ سے چلانا۔ حمر (ض) حمرًا: وحمرًا: وحمرًا حمرًا: حمرًا: حمرًا: حمرًا: حمرًا: حمر (ن) حمرًا: حمرًا: حمرًا: حمرًا: حمر (ن) حمرًا: حمرًا: حمرًا: حمرًا:
---	---

بہ: خواہش کرنا۔ (.....) وأَحْمَضُ
وَحَمَضُ العَجْمَلُ: نمکین وکڑوے پودے
چرنا۔ حَمَضٌ وَأَحْمَضُ الأَبْلُ: نمکین و
کڑوے پودے چرانا اور کہا جاتا ہے
"حَمَضٌ لَنَا فِي القَرْيَةِ" اس نے ہماری
مہمانی میں کمی کی حَمَضٌ وَأَحْمَضُ الشَّيْءُ:
کٹھا کرنا..... الشَّيْءُ عَنْهُ: پھیر دینا۔
أَحْمَضُ المَكَانِ: بہت نمکین وکڑوے
پودے والی جگہ ہونا۔ صفت (مُحَمِّضُ)
تَحْمِضُ الرَّجُلُ: ایک چیز سے دوسری چیز
کی طرف منتقل ہونا۔

الحامض: فاعل۔ کہا جاتا ہے "هو حامض
الفؤاد" وہ بگڑے دل کا ہے۔ "وحامض
الربيعين" کڑوے سانس والا۔

الأحماض: (ک) ہائیڈروجن والی مرکب
یہ نمک سے تبدیل ہو جاتا جب بیڈروجن کسی
کان کے ساتھ ملا یا جائے۔ حوامض کا ذائقہ
سرخ یا پھلکوی کی طرح ہوتا ہے۔

الحامضة: الحامض: کاموٹ۔ کسی چیز
کی خواہش۔ کسی چیز کا معدہ میں فساد کی
جانب منتقل ہونا۔

الحمض: کڑوا و نمکین پودہ۔ واحد
(حَمْضَةٌ) ج حَمْوض.

ألحمض الأستیک: اسٹیک ایسڈ
(سرخ میں) CH_3COOH

زَيْتُ زَاجٍ: پھلکوی تیل۔ الحمض
النتریک: NO_3H نائٹروجن پرکسائیڈ
ڈائنامیٹ کے جوڑنے میں استعمال ہوتی
ہے۔

الكبريت: گندھک۔ أحمض الكوریدریک:
ہائیڈروکلورک ایسڈ $H.C.L$ احمض
اسٹریک: سڑک ایسڈ $C.H.O$ ۔

الحمضة: کھانے کی خواہش۔ کہا جاتا ہے
"فؤاد حمض" و نفس حَمْضَةٌ" کسی چیز کو
سننے ہی بدکنے والا نفس۔

الحماض: ایک قسم کی گھاس جس کے پتے
کاسنی کے پتے کی مانند ہوتے ہیں۔ اس کی

دو قسمیں ہیں۔ ترش اور کڑوی اور اس کو
حَمِضَةٌ بھی کہتے ہیں۔ واحد (حَمَاضَةٌ)
تَرْجٌ حَمَاضٌ الكَبَادُ: تَرْجٌ کا اندرونی
حصہ۔

الإحماض: بمص۔ دلچسپ گفتگو میں مشغول
ہونا۔ شجیدگی سے مذاق کی طرف منتقل ہونا۔
الحَمِضَةُ ج حَمُضٌ (والمُحَمِّضُ
والمُحَمِّضُ) کثرت سے نمکین اور کڑوے
پودوں والی زمین۔

المستحمض: من اللبن: دیر میں جسنے والا
دودھ۔

حَمْطَةٌ (ض) حَمْطًا: چھلکا اُتارنا۔
حَمْطُ الكورم: انگوڑ پر درخت کا سایہ کرنا۔
..... الشَّيْءُ: چھوٹا کرنا..... الرجلُ: لپکا مارنا

اور اس سے مثل ہے "إِذَا طَرَبْتُ فَلَا
تُحَمِّطُ" جب مار تو لپکا مت مارو۔

الحماطة: گلے کی سوزش۔ انجیر کے مشابہ
ایک درخت اور بقول بعض گولر۔ دل کا
نقطہ۔ دل کا خون۔ ج حَمَاطٌ وَحَمَائِطُ.

حَمْطَرٌ: القبرية: بھرتا..... القوس: چلہ
کھینچنا۔

حَمْطَةٌ (ن) حَمْطًا: نچوڑنا۔
حَمْطَلٌ: اندرائن چننا۔

الحَمْطَلُ: اندرائن۔
حَمِيقٌ (س) وَحَمِيقٌ (ك) حَمِيقًا
وَحَمِيقًا وَحَمَاقَةٌ: بے وقوف ہونا۔ صفت

(أَحْمِقُ) مَوْتٌ حَمَاقَةٌ. ج حَمُوقٌ وَحَمُوقٌ
وَحَمِيقِي وَحَمَاقِي وَحَمَاقِي.
(ك حَمَاقَةٌ) السوقي: مندا پڑنا۔

حَمِيقَةٌ: بے وقوف کہنا۔
أَحْمَقُهُ: بے وقوف پانا۔ أَحْمَقَتِ المَرْأَةُ:
بے وقوف بنے چننا۔ صفت (مُحَمِّقٌ
وَمُحَمِّقَةٌ)

حَامِقُهُ: بے وقوفی میں مدد دینا۔
تَحَامِقُ وَتَحَمِّقُ: جھکف بے وقوف بننا۔

إِنْحَمَقٌ: بے وقوف ہونا..... السوقي: مندا
پڑنا..... الثوبُ: بوسیدہ ہونا۔

إِنْحَمَقٌ: بے وقوف ہونا..... ہ: بیوقوف
کھننا۔

الْحَمِيقُ: بمص۔ کم عقلی۔ بے وقوفی۔
شَرَابٌ نَوْمَةٌ الحَمِيقُ: ظہر کے بعد کی نیند۔
الحمیقی: بے وقوف۔ کم داڑھی والا۔

الحَمَاقُ وَالحَمَاقُ وَالحَمِيقُ وَالحَمِيقِي
وَالحَمِيقَاءُ: ایک بیماری جو چچک کے مشابہ
ہوتی ہے۔

البَقْلَةُ الحَمَاقَاءُ وَبَقْلَةُ الحَمَاقَاءِ: خرف کا
ساگ۔

الحَمْوُفَةُ وَالحَمِيقَةُ وَالأَحْمُوقَةُ: بہت
بے وقوفی والا۔

المُحَمِّقَاتُ: وہ راتیں جن میں اول سے
آخر تک چاندنی رہے۔

حَمَلٌ (ض) حَمَلًا وَحَمَلَانًا. الشَّيْءُ عَلَى
ظَهْرِهِ اِثْمَانًا..... الغَضَبُ: غصہ ظاہر کرنا
..... عَلِيٌّ نَفْسُهُ فِي النِّيرِ: جلنے میں
مشقت اٹھانا۔ حَمَلُهُ عَلَى الأَمْرِ: اگسٹا۔

برا بیچنے کرنا۔ حمل عنہ: بردبار ہونا.....
الشَّيْءُ عَلَى الأَخْرِ: ایک کا حکم دوسرے پر
لگانا..... المَرْأَةُ: حاملہ ہونا..... الشَّجَرَةُ

بِجْلِ دَارِ درخت ہونا..... القِرَانُ: یاد کرنا
..... العِلْمُ: روایت کرنا..... نَقْلٌ کرنا۔

(..... حَمَلَةٌ) فِي الحَرْبِ عَلَيْهِمُ: حملہ کرنا
(..... حَمَالَةٌ) بِه: ضامن ہونا۔

حَمَلَةٌ وَأَحْمَلَةٌ العَجْمَلُ: بوجھ اٹھانے میں
مدد کرنا۔

حَمَلَةٌ تَحْمِلَانًا وَحَمَلَانًا. الشَّيْءُ: اُثْمَانًا۔
تَحْمَلَةٌ تَحْمَلَانًا وَتَحْمَلَانًا.....
الأمرُ: برداشت کرنا..... القومُ: کوچ کرنا
..... الرجلُ: بہادر بننا۔

تَحَامَلٌ. فِي الأمرِ وَبالأمر: باوجود مشقت
کے اپنے ذمہ لینا..... علی فلان: ظلم کرنا۔
طاقت سے زیادہ کام کو کہنا..... عنہ: اعراض
کرنا۔

أَلِيهِ: متوجہ ہونا..... الشَّيْخُ فِي مَشْيِهِ: جلنے
میں گرانا رہنا..... علی نفسہ: باوجود

مشقت کے برداشت کرنا۔

إِنْخَمَلَ عَلَيْهِ: اُسکیا جانا۔

إِنْخَمَلَ الشَّيْءُ: اُٹھانا..... الامز: کسی امر

کی طاقت رکھنا اور اس پر صبر کرنا..... ساکان

مِنْهُ: چشم پوشی کرنا..... معاف کرنا

..... الصَّنِيعَةُ: شکر ادا کرنا۔

أَخْجَلَ: غضب ناک ہونا..... لَوْنُهُ: رنگ

پراننا۔

إِسْتَخَمَلَ: اٹھانے کی طاقت رکھنا۔

..... فَلَانًا: اٹھانے کو کہنا۔

الْحَمْلُ: منس۔ پیٹ کا بچہ۔ پھل۔ رج

جَمَالٍ وَأَحْمَالٍ وَخُمُولٍ.

الْحَمْلُ: بوجھ۔ رج أَحْمَالٍ وَخُمُولَةٍ.

الْحَمْلُ: بوجھ یا ہودہ والے اُونٹ۔ رج

خُمُولٍ.

الْحَمْلُ: بکری کا بچہ۔ رج حُمْلَانٍ وَأَحْمَالٍ.

بہت پانی والا بادل۔ آسان کے برجوں میں

سے ایک برج۔ لسان الْحَمْلُ: بارنگ

(ایک دو اکانام)

الْحَمْلَةُ: منس۔ ایک مرتبہ کا بوجھ۔ لڑائی کا

حملہ۔

الْحَمْلَةُ وَالْحَمْلَةُ: ایک جگہ سے دوسری

جگہ منتقل ہونا۔

الْحَامِلَةُ: نوکرا جولہے کا تانا۔ بحری بیڑہ۔

جسے جنگی جہاز عرشے کے طور پر استعمال

کرتے ہیں۔

الْحَامِلُ: فاء۔ رج حَمْلَةٌ. حَمْلَةُ الْقُرْآنِ:

قرآن کے یاد کرنے والے۔ قرآن کی

روایت کرنے والے۔ مَوْنٌ حَامِلَةٌ: اِمْرَاةٌ

حَامِلٌ وَحَامِلَةٌ: پیٹ والی عورت۔ رج

خَوَامِلُ. الْحَامِلَةُ: اَنُكُورٌ غَيْرُهُ اُتْهَانَةُ كِي

نُوكِرِي۔

الْحَوَامِلُ: قَدَمٌ۔ ہاتھ اور قدم کے پٹھے۔

الْحَمَالُ: دیت۔ تاوان۔ رج حُمْلٌ.

الْحَمَالَةُ: ضمانت۔ دیت۔ تاوان۔

الْحَمَالَةُ وَالْحَمِيْلَةُ: رج حَمَائِلُ

(وَالْمَحْمَلُ) رج مَحَامِلُ: تلوار کا پڑتلا۔ کہا

جاتا ہے "هُوَ خَمِيْلَةٌ عَلَيْنَا" وہ ہمارے ذمہ

بار ہے۔ الْحَمَالَةُ: مزدور کا پیشہ۔

الْحَمَالُ: قلی مزدور۔ بوجھ اٹھانے والا۔

عوام اس کو عتال کہتے ہیں۔ الْحَمَالُ: جزو

دان۔ لَفْظُ الْقَمَطَرِ: ہے۔

الْحَمُولُ: صابر۔ بردبار۔ خُمُولُ الْبَحْرِ:

دریائی نباتات۔

الْخُمُولَةُ: بار برداری کا جانور۔ رج

خُمُولَاتُ الْخَمْلَانِ: بار برداری کا جانور

جو کسی کو بہہ کیا جائے۔ مزدور کی اجرت۔

الْحَمِيْلُ: اٹھایا ہوا۔ اجنبی۔ ضامن۔ پیٹ

کا بچہ۔ تسمہ۔ سیلاب کا کوڑا کرکٹ۔ اٹھایا

ہوا بچہ جس کی کوئی پرورش کرے۔ منہ بولا

بیٹا۔

الْحَامِوْلَةُ: تیز بارش کے وقت تالے میں

اچھلنے والا پانی (مولد) ج خَوَامِيْلُ.

الْمَخْمِلُ: وہ چیز جس میں کوئی چیز اٹھائی

جائے۔ ہودہ۔ رج مَخَامِلُ.

الْمَخْمُولُ: مَشْعُ. الْمَخْمُولُ وَالْمَوْضُوعُ

عِنْدَ الْمُنْتَظَمِيْنَ: اصطلاح علم منطق میں

تفسیر حملیہ کے دونوں اجزاء جو نحو یوں کے

نزدیک بمنزلہ مند و مند الیہ کے ہیں۔ جیسے

زَيْدٌ كَرِيْمٌ میں زید موضوع ہے اور کریم

محمول ہے۔

خَمْلِقُ: آنکھیں پھاڑ کر تیز نظر سے دیکھنا۔

خَمْلَاقُ الْعَيْنِ وَخَمْلَاقُهَا وَخَمْلُوقُهَا:

بچوں کا اندرونی حصہ۔ رج خَمَالِيْقُ.

الْخَمُودُ وَالْخَمَاءُ وَالْخُمُو وَالْخَمُّ:

خسر۔ خاوند کی جانب سے عورت کا قریبی

رشتہ دار یہ اسمائے ست مکبرہ میں سے ہے اس

کا اعراب حالت رُفْعِی میں واو اور حالت

نَهْضِی میں الف اور حالت جَرِی میں یا سے

آتا ہے اور یہ ہمیشہ مضاف مستعمل ہوتا ہے۔

شثیہ حموان و حمان رج احماء.

حَمَاءَةُ. الرَّجُلُ: خوش دامن۔ حَمَاءَةُ

الْمَرْأَةِ: ساس۔ رج حَمَوَاتُ. الْحَمَاءَةُ:

پنڈلی کا عضلہ۔

خَمُوهُ الشَّمْسُ: آفتاب کی گرمی۔

خُمُوَةُ الْاَلَمِ: درد کی شدت و تیزی۔

خَمِي (ض) خَمِيْسًا وَخَمِيَّةً وَخَمِيَانَةً

وَمُخَمِيَّةً الشَّيْءُ مِنَ النَّاسِ: روکنا۔ بچانا۔

(..... جَمِيَّةً) الْمَرِيضُ مَا يَضُرُّهُ وَعَمَّا

يَضُرُّهُ: پرہیز کرنا۔

خَمِي (س) خَمِيَّةٌ وَمُخَمِيَّةٌ. مِنَ الشَّيْءِ:

کسی کام کے کرنے سے ناک چڑھانا۔

خَمِي (س) خَمِيًّا وَخَمِيًّا وَخُمُوًّا.

النَّازُ: تیز گرم ہونا..... عَلَيْهِ: غضب ناک

ہونا۔

خَاضِي مُخَافَةً وَخَمَاءً. عَنْهُ: حمایت کرنا۔

مَدَفَعْتُ كَرْنَا. عَلِي الصَّيْفِ: اچھی طرح

میزبانی کرنا۔

أَخْمِي إِخْمَاءً. الْمَكَانُ: جہی بنانا.....

الْخَدِيْدَةُ: بہت گرم کرنا۔

تَخْمِي وَإِخْمِي. الْمَرِيضُ: رکننا پرہیز

کرنا۔ اِحتمی منہ: بچنا۔

تَخْمِي: ہ۔ بچنا۔ پرہیز کرنا۔

إِخْمُوْمِي إِخْمِيَاءً: کالا ہونا۔

الْحَمِي: چراگاہ کہ جس میں دوسروں کے

جانور کو چرانے کی ممانعت ہو۔ ہر وہ چیز جس

کی حفاظت کی جائے۔

خَمِي. الشَّمْسُ: آفتاب کی گرمی۔

الْحَمَاءُ: بچائی ہوئی چیز۔ کہا جاتا ہے "ہو

جَمَاءٌ لَكَ" وہ تمہاری طرف سے فدیہ

ہے۔

الْحَمِيَّةُ: بچائی ہوئی چیز۔ پرہیز۔ کہا جاتا

ہے "السَّمْعَةُ بَيْتُ الدَّاءِ وَالْحَمِيَّةُ رَأْسُ

الدَّوَاءِ" معدہ بیماریوں کا گھر ہے اور پرہیز

دوا کی اصل ہے۔

الْحَمِيَّةُ: نفرت۔ مروّت۔ نخوت۔

الْحَمِي: بخار۔ رج حَمِيَاتُ.

الْحَمِيَّةُ: غصہ کا ابتدائی جوش۔ کہا جاتا ہے

"لَا تَكْلِمُهُ فِي حَمِيَّةٍ غَضَبِهِ" اس سے

غصہ کے ابتدائی جوش کی حالت میں گفتگو

مت کرو۔ شراب کی تیزی۔ شراب۔ منس

<p>وہاں ﴿مسلم﴾ مراد ہے جیسے ﴿حَنِيفًا لِلَّهِ﴾ ح حَنَفَاءُ: ادیان باطلہ کو چھوڑ کر دین حق کو اختیار کرنے والا۔</p> <p>الحَنِيفِي: امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کا تابع۔ ح حَنَافٍ وَ حَنِيفَةٍ: الحَنِيفِيَّةُ: بیچ دارنوں کی جس کو پانی کی ضرورت کے وقت استعمال کیا جاسکے۔</p> <p>الحَنِيفِيَّةُ: فی الاسلام والدين: اسلام کی طرف میان اور دین کے ساتھ تمسک۔</p> <p>الحَنِيفِس: بے حیاء بڈ زبان عورت۔</p> <p>الحَنِيفِش والحَنِيفِش: ایک قسم کا زہریلا سانپ جس کا سر بڑا اور گردن باریک ہوتی ہے اور جب غضب ناک ہوتا ہے تو اس کی گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں۔ ح حَنَافِش وَ حَنَافِش: الحَنِيفِش: دہلا پتلا۔</p> <p>حَنِيق (س) حَنَقًا: منہ وعلیہ: سخت غضبناک ہونا۔ صفت (حَنِيق وَ حَنِيق) ج حَنِيق ابل حَنِيق وَ حَنِيق: مومے اونٹ۔</p> <p>أَحْنَقُهُ: غضبناک بنانا۔ أَحْنَقَ الدَابَّةَ: دہلا کرنا۔ أَحْنَقَ الرجلُ: سخت کینہ رکھنا۔</p> <p>أَحْنَقَ: مومنا ہونا۔</p> <p>الحَنِيق وَ الحَنِيق: سخت غصہ۔</p> <p>الحَنِيقُ: ایک قسم کا پرند یا تیر۔</p> <p>حَنْكَ (ن ض) حَنْكًا: الشَّيْ: بھجنا (.....) وَ اَحْتَنَكَ: الفرسُ) گھوڑے کے منہ میں ری لگانا۔</p> <p>حَنْكَ وَ حَنْكَ: چپا کر نرم بنانا۔</p> <p>حَنْكَ (ن ض) حَنْكَ وَ حَنْكَ وَ حَنْكَ: وَ اَحْتَنَكَ: الدهرُ الرجلُ: ناخبرہ کا رہنا دینا۔ صفت (حَنِيك) ج حَنْكَ: حَنْكَ الصبي: مہذب بنانا۔</p> <p>تَحْنَكَ: بگڑی کو ٹھوڑی کے نیچے سے لاکر باندھنا۔</p> <p>أَحْتَنَكَ: الجرادُ الارضُ: کھا کر صاف کر دینا۔ اَحْتَنَكَ: غالب ہونا۔</p> <p>اِسْتَحْنَكَ: كم خوراك کے بعد زیادہ</p>	<p>الاَحْنَطُ: بڑی اور گھٹی داڑھی والا۔</p> <p>الجَنَاطَةُ: گندم فروش۔ مردوں پر حنوط لگانے کا پیشہ۔</p> <p>الجَنَاطُ: مردوں پر حنوط لگانے والا..... (و الجَنَاطِيُّ) گیموں بیچنے والا۔</p> <p>الجَنَاطُ وَ الجَنُوطُ: ایک قسم کی مرکب خوشبو جو مردوں کے جسم اور کنن پر لگاتے تھے۔</p> <p>الجَنَاطِيُّ: وہ شخص جس کی خوراک گیموں ہو۔</p> <p>الجَنَاطِيُّ: پست قد۔</p> <p>الجَنَاطُ وَ الجَنَاطَاوَةُ: بڑے پیٹ والا۔</p> <p>پست قد۔</p> <p>الجَنَاطِيوَةُ: بادل۔</p> <p>الجَنَاطَبَاءُ وَ الجَنَاطَبَاءُ: زرنڈی۔ زر گبر یا۔</p> <p>الجَنَاطُوطُ: بڑے ڈیل ڈول کی ناکارہ عورت۔</p> <p>الجَنَاطَاب: پست قد بد خو۔</p> <p>الجَنَاطَلُ: اندران جو کڑوا ہونے میں ضرب المثل ہے۔</p> <p>جَنَاطَلَتْ: الشجرةُ: کڑوے پھل والا ہونا۔</p> <p>حَنْفَ (ض) حَنْفًا: جھکنا..... رجلہ: پاؤں تیزھا کر دینا۔</p> <p>حَنِيفَ (س) حَنْفًا وَ حَنْفَ (ك) حَنْفًا: تیزھے پاؤں والا ہونا۔ صفت (أَحْنَفَ) حَنْفًا: تیزھے پاؤں والا کر دینا۔</p> <p>تَحْنَفُ: جھٹی ہونا۔ حننی ہونا۔ کہا جاتا ہے "شافعی تَحْنَفُ" شافعی حننی ہو گیا..... الیہ: مائل ہونا۔</p> <p>الجَنَافَاءُ: تیزھا پاؤں۔ کمان۔ اَسْتَرَا۔</p> <p>گرگٹ۔ کچھوا۔</p> <p>الحَنِيفُ: سیدھا۔ اسلام کے احکام پر چلنے والا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کا نتیجہ۔ موحد۔ کلیات میں ہے کہ قرآن پاک میں جہاں کہیں لفظ ﴿حَنِيفٌ﴾ کے ساتھ ﴿مسلم﴾ ہے وہاں حاجی مراد ہے جیسے ﴿وَلَكِنْ كَانِ حَنِيفًا مَّسْلَمًا﴾ اور جہاں بغیر لفظ ﴿مسلم﴾ کے تھا ﴿حَنِيفٌ﴾ ہے</p>	<p>اِسْتَحْنَدُ: دھوپ میں لیٹ کر پسینا ٹا۔</p> <p>الحَنْدَةُ: سخت گرمی۔</p> <p>الحَنِيدُ: بھونا ہوا گوشت۔ گرم پانی۔ سر دھونے کی خوشبودار چیز۔</p> <p>الجَنِيذُ: بہت پسینہ والا۔</p> <p>حَنْر (ض) حَنْرًا: الحَنِيزَةُ: محراب بنانا طاق میں خمدار جگہ بنانا۔</p> <p>الحَنِيزَةُ: طاق میں خمدار جگہ کمان ڈھنے کی کمان۔ ہر وہ چیز جو خمدار ہو۔ ح حَنِيسِر وَ حَنْبِو۔</p> <p>حَنِيس (س) حَنْسًا: دلیری سے وسط محرکہ میں ڈٹے رہنا۔</p> <p>الحَنْسُ: پرہیزگار لوگ۔</p> <p>حَنْسَه (ض) حَنْسًا: بنانا۔ علیحدہ کرتا۔ غضبناک کرنا..... الصيْدُ: شکار کرنا۔</p> <p>حَنْسَبَ الحَيَّةَ فَلَانًا: ڈسنا۔</p> <p>أَحْنَشَهُ: شکار کرنا۔ عن الامر: جلدی کرنا۔</p> <p>الحَنْشُ: سانپ کی ایک قسم۔ ہر وہ جانور جس کا سر سانپ کی مانند ہو جیسے گرگٹ۔ چھنگلی وغیرہ ح حَنْشَاش وَ حَنْشَان. حَنْطَ (ن) حَنْوُطًا: أَحْنَطَ: الزرعُ: کٹائی کے قابل ہونا..... الشجرُ: پھل پکنا۔</p> <p>حَنْطَ (ض) حَنْطًا: الجلدُ: سرخ ہونا۔ صفت (حَانِطُ) حَنْطُ وَ اَحْنَطُ: الميتُ: مردہ پر حنوط ملنا۔</p> <p>تَحْنَطُ: حنوط استعمال کرنا۔</p> <p>اِسْتَحْنَطُ: جان دینے کے لئے دلیری کرنا۔</p> <p>التَحَانِطُ: قا۔ بہت گیموں والا۔ گیموں والا۔</p> <p>کپے ہوئے پھلوں والا درخت۔ اَحْمَسِر حَانِطُ: بہت سرخ۔</p> <p>الجَنَطَةُ: گیموں۔ ح حَنْطُ. جَنَطَةُ سَوْدَاءُ: سیاہ گندم جانوروں کی غذا میں استعمال ہوتی ہے اور انسانوں کے لئے اس سے بعض کشتہ جات تیار کیے جاتے ہیں۔</p> <p>الجَنَاطِيُّ: بہت گیموں کھانے والا۔ پھولا ہوا۔</p>
--	---	---

خوراک والا ہونا۔

الخایک: قال: أسود خایک: سخت سیاہ۔

الخنک والحنک والخنکة: تجربہ۔

الخنک: تالو ٹھوڑی۔ خنک الغراب:

کوئے کی چوچ یا اس کی سیاہی۔ کہا جاتا ہے

"أسود من خنک الغراب" کوئے کی

چوچ سے کالا۔ ح الخناک۔ الخنک: وہ

لوگ جو کسی دوسری جگہ چارہ کی تلاش میں

جائیں۔ چھوٹے ٹیلے جہاں کے پتھر سفید اور

نرم ہوں۔ واحد (خنکة)

الخنک: عقل مند تجربہ کار مرد۔ مؤنث

خنکة

الحنک: چ خنک (والمخنک)

المخنک: تجربہ کار۔

خنکل: فی الشی: گرانباری سے چلنا۔

آہستہ چلنا۔

الخنکلیس: ایک قسم کی مچھلی۔ فصیح عربی

البحری ہے۔

خنا (ن) خنوا وحنی (ض) حنایة۔

الشی مؤنثا۔ حنا الخنیة ای القوس:

کمان بنانا۔

خنا (ن) خنوا وحنی: علیہ: مائل ہونا۔

حنی تعینیة۔ الشی: مؤنثا۔

تختی: میزھا ہونا..... علیہ: مہربانی کرنا۔

إنحنی: میزھا ہونا۔ مزنا۔

الحنایة: ح الخوانسی (والحنایة

والحنانوت) دکان۔ مالک دکان۔ الحنایة:

بکری جس کی گردن بغیر کسی علت کے مڑی

ہوئی ہو۔

الحنوی والحنای: سب سے لمبی پیلی۔

الحنایة: شراب۔ الحنایی: کاموٹ۔

شراب پیچنے والے۔

الحنو والحنو: بدن کا ہر وہ حصہ جس میں کچی

ہو جیسے پیلی۔ ہرنیزھی کڑی۔ حنو الشی:

چیز کا پہلو۔ وحنو السرج: زمین کا اگلا اور

پچھلا حصہ ح الخنساء وحنی وحنی وحناء

الأمور: تشابہات امور۔

الحنیة: کمان..... من البناء: کمان کی مانند ٹھ

دار۔ ح حنا یا وحنی۔

الاحنی: کبڑا۔ مؤنث حنواء: کہا جاتا ہے

"فلان احنی الناس ضلوغا علیک"

فلاں تمہارے اوپر لوگوں میں بہت مہربان

ہے۔

المحنیة والمحنوة والمحناة ح محان

: وادی کاموڑ۔

المحنی: وادی کاموڑ۔

حاب (ن) حوینا وحوینا حوینة وحابا

وحیایة۔ بکذا: گنہگار ہونا۔

أحوب إحوابا: گناہ کی طرف مائل ہونا۔

تأحوب: گناہ سے بچنا..... منہ: درد مند ہونا

..... فی دُعائه: گرا گرا کر دعا کرنا۔

استأحوب: درد مند ہونا۔

الحووب والحووب: غم وحث (الحووب

والحووب والحوینة والحاب والحنایة)

گناہ۔ الحوینة: ماں باپ۔ بمن بیٹی۔

الحوینة والحنیة والحوینة: ماں کی جانب

سے قرابت۔ کہا جاتا ہے "لسی فینهم حوینة"

میری ان سے ناتھالی رشتہ داری ہے۔

حاجت۔ حالت۔ کہا جاتا ہے "بہات بحوینة

سؤء" اس نے بری حالت میں رات

گزاری۔ السحوینة: ماں کی مانتا۔ بیوی۔

باندی۔

الحوینة: کمزور مرد۔ کہا جاتا ہے "إنما فلاں

حوینة" فلاں شخص کمزور ہے نہ اس سے خبر کی

أمدید ہے نہ شرکاء خوف۔ و"إن لسی حوینة

أعولها" میرے عیال ہیں جن کی میں کفالت

کرتا ہوں۔

الأحوب: گنہگار۔ مؤنث حویناء۔

الحویناء: نفس۔ ح حویناء ات۔

المأحوب والمأحوب: وہ شخص جس کا مال

ضائع ہو جائے پھر مل جائے۔

حات (ن) حوینا حوینا۔ الطیر

او الوحش علی الشی: منڈلانا۔

حسارتہ: مکر و فریب سے کام لینا۔ دھوکا دینا

..... عن کذا: مدافعت کرنا۔

الحوین: مچھلی۔ عموماً بڑی مچھلی پر اطلاق ہوتا

ہے۔ ح حینان و أخوات و حوینة: آسمان

کے ایک برج کا نام۔

الحویناء: مؤنثی کمزورالی عورت۔

أحاث إحصائة۔ الارض: زمین کھود کر اُلٹنا

پلٹنا..... الشی: نکالنا۔ کہا جاتا ہے "تو کہم

(حوین بؤث او حیث بیث او حاث باث

او حوینا بؤثا) یعنی اس نے ان کو متفرق

چھوڑا۔

الحویناء: جگر اور اس کے آس پاس کے

حصے۔ مؤنثی عورت۔

الحوین: جگر کی رگ۔

حاج (ن) حوینا حوینا ہونا۔

حوین: بہ عن الشی: کسی چیز کی وجہ سے کسی

سے ہٹ جانا۔

أحوین: إلیہ حوینا ہونا..... حوینا بنانا۔

تأحوین: حاجت طلب کرنا۔ کہا جاتا ہے

"تخرج فلاں يتأحوین" فلاں حاجت طلب

کرنے کے لئے نکلا۔

إحتناج: إلیہ حوینا ہونا۔

الحوین: ایک قسم کا کاٹا۔ ایک قسم کا ترش

پودہ۔

الحوین: صحت۔ سلامتی۔ کہا جاتا ہے "حوینا

لک" یعنی تمہارے لئے سلامتی ہو۔

الحوین: فقر و قاتہ۔

الحویناء: حاجت ضرورت اور اسی سے

ہے۔ ماکان فی نفسہ حویناء ولا لؤجاء

وبالنصفیر حویناء ولا لؤجاء" یعنی

اسے کوئی حاجت نہیں۔ "و کلمتہ فمأزہ

حویناء ولا لؤجاء" میں نے اُس سے گفتگو

کی اس نے اچھا یا برا کوئی جواب نہیں دیا۔

الحویناء: ضرورت۔ سوال۔ ح حوینا و

حوین و حوینات و حوینا: اخیر کی جمع

حائجہ کی تقدیر پر ہے۔ مبالغہ کی غرض سے

حائجہ حائجہ کہا جاتا ہے۔

المحاونین: محتاج لوگ۔

خاؤذہ (ن) خوذاً. عنہ: ہٹ جانا۔

خاؤذتہ. الخمی: بخار کا بار بار آنا۔ کہا جاتا ہے "ہو یحاوڈنا بالزیارة" وہ ہم لوگوں کے پاس ملاقات کے لئے بار بار آتا ہے۔

خاؤذہ (ن) خوذاً: حفاظت کرتا۔

علسی الشئی: نگہبانی کرنا (..... واخوڈ) الدیابۃ: تیز بانگنا۔ اخوڈ ثوبہ: کپڑے سینا۔ اخوڈ السیر: تیز چلنا۔ اخوڈ الشاعر قصیدہ: عمدہ قصیدہ کہنا۔

استخوڈ: علیہ: غالب ہونا۔

الخاؤذ: ایک قسم کا درخت۔ واحد (الخاؤذ) رخ احساؤ: پیچہ۔ کہا جاتا ہے "ہو خفیف الخاؤذ" وہ تھوڑے مال والا ہے۔

الجواؤذ: دوری۔ جدائی۔

السحوذان: ایک خوش مزہ نباتات کا نام جس کا پھول سرخ رنگ کا اور اس کی جڑ میں زردی ہوتی ہے۔

الاشوؤذی: ماہر۔ ہر کام میں چست و پھرتیا۔

السحوؤذی: کوچوان۔ گاڑی بان۔ عوام العزیمی: کہتے ہیں۔

خاز (ن) خوؤزا و خوؤزا و محازا و منحازة: لوثنا۔ تیر ہونا (..... خورا) الثوب: دھونا۔ سفید کرنا۔ خاز الشئی: مندا پڑنا۔ کہا جاتا ہے "خاز بغد ما کماز" زیادہ ہونے کے بعد گھٹ گیا۔ (نعوذ باللہ من السحوؤذ بغد السحوؤذ) ہم زبانی کے بعد نقصان سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔

خوؤرت (س) خوؤزا: العین سفیدی اور سیاہی کا بہت سفید و سیاہ ہونا۔ صفت (خوؤزا)

خوؤر: القرض: بیلن سے بیٹنا..... الثوب: سفید کرنا..... اللہ: محروم کرنا۔

خاوؤزہ محاوؤزہ و جوؤزا و خوؤزا: گفتگو کرنا۔ جواب دینا۔ آخاز: اجازت۔ الجواب: جواب دینا اور اسی سے ہے "الـ" یسخر جوابنا" اس نے جواب نہیں دیا۔ اور کہا

جاتا ہے "طحنت الطاحنة فَمَا آخازت شینا" چکی پیسنے والی چکی نے پیرا اور آنا کچھ بھی نہیں دیا۔

آخازت النافقہ: بچہ والی ہونا۔ آخاز البعیر: ذبح کرنا۔

تخاوؤز: القوم: ایک دوسرے سے گفتگو کرنا۔ ایک دوسرے کو جواب دینا۔

إخوؤزا خوؤزا: سفید ہونا۔ إخوؤرت العین: بہت سیاہی اور سفیدی والی ہونا۔ استخازة: گفتگو کرنا۔

السحوؤز: ہلاکت۔ کسی۔ کہا جاتا ہے "إنه فی سحوؤر و یؤور" یعنی وہ نہ تو کسی صنعت میں ہے اور نہ کسی قسم کی آمدنی میں۔

السحوؤز: گہرائی۔ کہا جاتا ہے "بعینہ السحوؤز" یعنی ٹھنڈ۔ وما أصنت خوؤزا: میں نے کچھ نہیں پایا۔

السحوؤر: مہس۔ سفید پتلے چمڑے۔ سرخ رنگ ہوا چمڑہ۔ گائے۔ ایک شہور درخت جس کے گوند سے کبریا تیار ہوتا ہے۔ رخ آخوؤر۔

السحوؤر والحوؤر: اونٹنی کا بچہ جس کا دودھ ابھی نہ چھڑایا گیا ہو۔ رخ آخوؤزہ و جیزان۔ السخازة: گول چوک۔ محلہ۔ کہا جاتا ہے "نزلنا فی حازة نبی فلان" ہم لوگ بنو فلان کے محلہ میں اترے۔

السخائر: فالغ۔ دہلا پٹا۔ السخايرة: الخاير: کامؤنت۔ کہا جاتا ہے "ما هو الا خايرة من الخواير" یعنی اس کے اندر کوئی خیر و برکت نہیں۔

الاشوؤری: سپید۔ نازک۔ السحوؤری: میدہ۔ کھریاٹی۔ ہر وہ چیز جس سے سفیدی کی جائے۔

السحوؤری: نصیحت کرنے والا۔ خیر خواہ۔ دھوبی۔ رشتہ دار۔ مذکور اور بقول بعض انبیاء (علیہم السلام) کے مددگار اور اسی سے ہے (السحوؤریون) سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰة والسلام کے انصار و عوامان۔

السحوؤریة: السحوؤری: کامؤنت۔ شہری حصہ۔

عورت ج خوؤریات۔

المسحوؤر: وہ لکڑی یا لوہا جس پر چرخی گھومتی ہے۔ المسحوؤر فی الهندسة: علم ہندسہ کی اصطلاح میں وہ سیدھا خط جو کمرہ کے دونوں قطبین کے درمیان ہوتا ہے۔

المسحوؤر: روٹی پکانے والے کا بیلن۔ وہ لکڑی جس پر کوئی چیز گھومے۔ رخ مسحوؤر۔ کہا جاتا ہے "قلقت مسحوؤرہ" یعنی اس کا معاملہ بگڑ گیا۔

المسحازة: واپسی۔ کسی۔ لوٹنے کی جگہ۔ اونٹ کا کھر۔ تالو۔ ہر وہ بڑی جو پتی کی مانند ہو۔ محازة الاذن: کان کا گڑھا۔

المسحوؤرة و المسحوؤرة: جواب۔ خفت (مسحوؤر) موزہ جس کا استر سرخ چمڑے کا ہو۔

خاز (ن) خوؤزا و حیازة و اخساز إختیازا: الشئی: اکٹھا کرنا۔ جمع کرنا۔ الابل: نری سے بانگنا (خاز خوؤزا) الرجل: نرم چلنا۔

خوؤر تخوؤنزا: الابل: پانی کی طرف لیلتہ السحوؤر: میں اونٹوں کو بانگنا (دیکھنے لیلہ الحوز)

خاوؤزہ محاوؤزہ: باہم زندگی بسر کرنا۔ میل ملاپ کرنا۔ روندنا۔ ایک دوسرے کو دھنکارنا۔

تخوؤر: علیحدہ ہونا..... الحیة: کڈلی مارنا۔ کہا جاتا ہے "ذخل علیہ فما تخوؤر لہ" وہ اس کے پاس آیا اور اس کے لئے علیحدہ نہیں ہوا۔

تخاوؤر: الفرقان: ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا۔

إنساز إنحیازا: عنہ: ہٹ جانا..... الیہ: مائل ہونا..... القوم: مرکز کوچھوڑ دینا۔ ٹکلت کھانا۔

السحوؤرة: گوشہ کنارہ طبیعت۔ خوؤرة المملكة: ایک مملکت کی محدود کاروباری حصہ۔

کام کو مختصر کر دینا۔

أَحْوَالٌ. الصبِيُّ: یک سالہ ہونا اور کہا جاتا ہے "مَا أَحْوَلَهُ وَمَا أَحْيَلَهُ" وہ کتنا بڑا حیلہ ساز ہے۔ "وَهُوَ أَحْوَلُ مِنْكَ وَأَحْيَلُ مِنْكَ" وہ تم سے زیادہ حیلہ گر ہے۔

تَحْوَلٌ. عَنهُ: پھر جانا..... الرَّجُلُ: ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا..... فِي الْأَمْرِ: حیلہ دکر سے کام کرنا۔

إِحْتِئَالٌ إِحْيَالًا: حیلہ کرنا..... الشَّيْءُ: ایک سال کا ہونا..... عَلَيْهِ بِاللَّذَيْنِ: دوسرے کے ذمہ دارنا۔

إِحْوَالُهُ. الْقَوْمُ: گھیر لینا۔

إِحْوَالٌ. عَيْنُهُ: جھنگلی ہونا۔

إِحْوَالَتِ الْأَرْضِ: سرسبز ہونا اور ہموار آگنا۔

إِسْتِحْوَالٌ إِسْتِحْوَالَةً: ایک حال سے دوسری حالت کی طرف بدلنا۔ مَحَالٌ: ہونا..... الْقَوْمُ: درستی کے بعد کج ہونا..... فَلَانِ الشَّيْءِ: کسی چیز کی طرف دیکھنا کہ آیا اس میں حرکت ہے یا نہیں۔

أَلْحَوَالِي: سب سے زیادہ طویل پسلیاں اس واسطے کہ ان میں میزھاپن ہوتا ہے۔

أَلْحَوْضِيَّةُ: پھول کا نام جو کہ بڑے جسم والا متعدد رنگوں والا ایک ستارہ کی شکل پر ہوتا ہے۔

أَلْحَوَالَةُ: ایک شخص کی طرف سے دوسرا قرض کی ادائیگی کرے۔ اس کی کئی اقسام ہیں:

(۱) حَوَالَةُ بَرْبُدِيَّةٍ: مٹی آرڈر۔ (۲) حَوَالَةُ مَضْرُوبِيَّةٍ: بنک ڈرافٹ۔ (۳) حَوَالَةُ بَرْقِيَّةٍ: ٹیلی گراف مٹی آرڈر۔ (۴) حَوَالَةُ الْمَسْطَرَّةِ: کراس چیک۔ (۵) حَوَالَةُ الْمُعْتَمِدَةِ: ایل سی۔ طرفین کے اعتماد کے بغیر رقم نہ ملے۔ (۶) الْمَوْقَعَةُ عَلَيَّ بِنِيَّاضٍ: بلیک چیک۔

الْحَالُ: کیفیت۔ بَيْتٌ: صفت (مذکر و مؤنث) گرم راکھ۔ کالی مٹی۔ حَالٌ قَبْلِي: الفرس: گھوڑے کی پشت کا درمیان۔ ح

أَحْوَالٌ وَأَحْوَالَةٌ.

حَالَةٌ. الشَّيْءُ: کیفیت۔ حالت و حالات. حَالَاتُ الدَّهْرِ: زمانہ کی گروٹھیں۔

الْحَوَالُ: مَصْرُوعٌ. قَدْرَتٌ. كَمَا جَاءَتْ فِي "لَا أَحْوَالَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" یعنی نہ تو حرکت ہے نہ قوت ہے مگر اللہ تعالیٰ کی مشیت سے۔ ہوشیاری۔ دور بینی۔ سأل۔ ح حَوَالٌ وَأَحْوَالٌ.

الْحَوَالِيُّ: ایک سالہ بچہ۔ ح حَوَالِيَّاتٌ اور اسی سے ہے "حَوَالِيَّاتٌ زُهْمِيَّةٌ" یعنی زہیر کے وہ قصائد جن کی نظم و ترتیب و تہذیب اور لوگوں کے سامنے پیش کرنے میں ایک سال کی مدت لگتی تھی۔

الْحَوَالُ: ہوشیاری۔ دور بینی۔ قدرت۔ تصرف زوال۔ انتقال۔ کہا جاتا ہے "لَا حَوَالَ عَنَّهُ".

الْحَوَالُ: بھیگانا۔

حَوَالٌ وَحَوَالِيٌّ وَحَوَالٌ وَحَوَالِيٌّ. الشَّيْءُ أَوْ الشَّخْصُ: گرد آگرد۔ کہا جاتا ہے "قَعَدَ حَوَالَهُ وَحَوَالِيَهُ وَحَوَالَهُ وَحَوَالِيَهُ".

الْحَوَالُ وَالْحَوَالَانُ وَالْحَوَالَانُ: تغیر و انقلاب۔

الْحَوَالِيُّ وَالْحَوَالُ وَالْحَوَالِيُّ: حیلہ ساز۔ بہت سخت حیلہ گر۔

الْحَوَالُ: ہر وہ چیز جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہو۔

حَيْثَالٌ. الشَّيْءُ: مقابل۔ سامنے اور کہا جاتا ہے "قَعَدَ كَلَّ عَلَيَّ حَيْثَالَهُ" ہر ایک علیحدہ علیحدہ بیٹھا۔

السَّجِيَّةُ وَالْحَوَالَةُ: ہوشیاری۔ دور بینی۔ تصرف کی قوت۔ ح حَيْلٌ وَحَوَالٌ.

السَّحْوَالَةُ: تعجب امر منکر۔ مصیبت۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ حَوَالَةٌ" یعنی بہت حیلہ گر مرد۔

"وَهَذَا مِنْ حَوَالَةِ الدَّهْرِ" یہ عجائبات زمانہ سے ہے۔

الْحَوَالُ: بھیگانا۔ بہت حیلہ گر۔

الْحَوَالِيُّ: گواہ۔ ضامن۔

الْأَحْوَالُ: بھیگانا۔ مَوْنُثٌ حَوَالَاءُ ح حَوَالٌ.

الْحَوَالِيَّةُ: فَا۔ رنگ بدلا ہوا۔ یکسالہ۔ ہر وہ مادہ جو حاملہ نہ ہوئی ہو۔ کہا جاتا ہے "إِسْرَافَةُ حَوَالِيَّةٌ وَنَحْلَةٌ حَوَالِيَّةٌ" ح حَوَالٌ وَحَوَالٌ وَحَيْالٌ وَحَوَالِيَّةٌ.

الْحَوَالِيَّةُ. الْحَوَالِيَّةُ: کاموٹ۔ حیلہ۔ کہا جاتا ہے "مَا فِيهِ حَوَالِيَّةٌ" اس میں کوئی حیلہ نہیں۔ الْمُحَالُ: مشکل۔ باطل۔ میزحاح۔ غیر ممکن۔

الْمُحْوَالُ: ایک سالہ بچہ۔

السُّحَيْجِلُ. مِنَ النِّسَاءِ: لڑکی کے بعد لڑکا یا لڑکے کے بعد لڑکی بننے والی عورت۔

السَّحْوَالَةُ: ہوشیاری۔ تصرف کی قدرت۔ رہٹ۔ پٹنہ یاد درمیان۔ ح حَسَالٌ وَحَسَاوِلٌ کہا جاتا ہے "الْمَسْحَالَةُ مِنَ الْأَمْرِ" ضروری۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ السَّحْوَالَةُ: رہٹ۔ بڑی چرخی۔

السَّحْوَالُ: بہت محال باتیں کہنے والا۔

السُّحَيْجِلُ: بے ہودہ و لغو بات۔ بھرا ہوا۔ السُّحَيْجِيَّةُ وَالْمُسْحَالَةُ مِنَ الْقَبْسِيِّ: میزھی کمان..... مِنَ الْأَرْضِ: ایک سال یا چند سال چھوڑی ہوئی زمین۔

حَامٌ (ن) حَوْمًا وَحَوْمَانًا. عَلَى الشَّيْءِ وَحَوْلَهُ: منڈلانا..... الرَّجُلُ: بیاسا ہونا۔

صَفْتٌ (حَسَائِمٌ) حَوْمٌ مَوْنُثٌ حَسَائِمَةٌ ح حَوَالِمٌ وَحَوْمٌ (..... حَوْمًا وَحَيْفًا وَحَوْمًا) حَوْلٌ غَرَضُهُ وَعَلَيْهِ: طلب کرنا۔

حَوْمٌ. فِي الْأَمْرِ: کام میں لگا رہا۔

الْحَوْمُ: اونٹوں کا بڑا گلہ۔

الْحَوْمُ: شراب جو سر کو چکرادے۔

حَوْمَةٌ. الْقِتَالُ أَوِ الْبَحْرُ أَوِ الرَّمْلُ وَغَيْرَ ذَلِكَ: بڑا صدمہ۔ حَوْمَةُ الْمَوْتِ: موت کا ہجوم۔

الْحَوْمَةُ: بلور۔

حَوْمَلٌ حَوْمَلَةٌ: پانی اٹھانا۔

الْحَوْمَلُ: صاف سیلاب۔ کالا بدل۔

تَحْوَالٌ. الرَّجُلُ: ذلیل ہونا۔ ہلاک ہونا۔

<p>السُّمَّعِيُّوْنَ: فا۔ وہ راستہ جو جنگل کے عرض میں ہو اور یہ معلوم نہ ہو کہ کہاں نکلا ہے۔ بھاری بادل جس کے لئے ہوا نہ ہو جو کہیں لے جائے۔</p>	<p>حَايِدَةٌ مُخَايِدَةٌ وَجَيَادًا: بعلجیدہ ہونا۔ السَّيْحِدُ: چیز کا اُبھرا ہوا حصہ۔ پہاڑ کا ٹکڑا ہوا کنارہ۔ پہاڑی بکرے کے سینگ کی گرہ۔ ج حَيُودٌ وَجَيْدٌ أَوْ حَيَادٌ (.....) وَالْحَيْدُ) مثل ونظیر۔</p>	<p>حَوِيٌّ (س) حَوِيٌّ وَأَخْوَوِيٌّ إِخْوَاءٌ وَ إِخْوَاوِيٌّ إِخْوِيَّوَاءٌ: بزرگی مائل یا سرخی مائل سیاہ ہونا۔ صفت (أَخْوِيٌّ) مَوْنُثٌ حَوَاءٌ ج حَوِيٌّ۔</p>
<p>حَايِرٌ (ض) حَيْرًا: الْاِبْلُ: ہانکنا۔ تَحْيِيرٌ: الشِّي: کسی ایک ہی جگہ میں منحصر ہونا۔..... الْحَيْةُ: کندلی مارنا۔ الْحَيْرُ: دیکھنے مادہ حوز۔ حَاسٌ (ض) حَيْسًا: الشِّي: ملانا۔</p>	<p>الْحَيْدَةُ: پہاڑی بکرے کے سینگ کی گرہ۔ الْحَيْدِيُّ: منتکب کی چال۔ الْحَيْدَانُ: منکبری جو چانور کے چلنے سے اڑے۔</p>	<p>حَوِيٌّ (ض) حَوَايَةٌ وَحَيْسًا: الشِّي: جمع کرنا۔ حَوَاءٌ تَحْوِيَّةٌ: قبضہ کرنا۔ تَحْوِيٌّ: سمنٹا۔ گول ہونا۔ الْهَيْئَةُ: کندلی مارنا۔ الشِّي: قبضہ کرنا۔</p>
<p>الْحَيْسُ: دیکھنے مادہ حوز۔ حَاسٌ (ض) حَيْسًا: الشِّي: ملانا۔ الْحَيْلُ: بِنَا (.....) وَحَيْسٌ) الْحَيْسُ: جیس بنانا۔ کہا جاتا ہے ”جَيْسٌ حَيْسُهُمْ“ ان کی بلاکت قریب ہوئی۔</p>	<p>الْمَحْيِدُ: حاد کا اسم ظرف۔ حَسَارٌ (س) حَيْرًا وَخَيْرَةً وَخَيْرَانًا وَخَيْرًا الْمَاءُ: پانی کا اس طرح آنا جانا کہ یہ نہ معلوم ہو کہ کسے جاری ہے۔ السَّرْجُلُ: چکا چونڈ ہونا۔ راستہ گم کرنا۔ فسی امرہ: حیران ہونا۔ صفت (خَيْرَان) مَوْنُثٌ خَيْرِيٌّ ج حَيَارِيٌّ وَحَيَارِيٌّ۔</p>	<p>إِخْوِيٌّ إِخْوِيَّوَاءٌ: الشِّي: وعلیہ: جمع کرنا۔ الْخَاوِيٌّ: فا۔ ساپ کا منتر کرنے والا۔ مَوْنُثٌ خَاوِيَةٌ ج خَاوِيَاتٌ وَخَاوِيٌّ: الْخَاوِيَاءُ: کئی ہوئی آنتیں ج خَاوِيَاءُ ات وَخَاوِيٌّ۔</p>
<p>السَّحْيَسُ: مصل۔ ایک قسم کا کھانا جو کھجور لگی اور ستوسے تیار کیا جاتا ہے۔ کچا کام۔ ردی کام۔</p>	<p>بونا۔ صفت (خَيْرَان) مَوْنُثٌ خَيْرِيٌّ ج حَيَارِيٌّ وَحَيَارِيٌّ۔ حَيْرَةٌ: حیرانی میں ڈالنا۔ تَحْيِيرٌ: الْمَاءُ: بمعنی حَايِرٌ الْمَاءُ:..... الْمَكَانُ بِالْمَاءِ: بھر جانا (وَأَسْحَارٌ) حیرانی میں پڑنا۔ اسْتَحَارَ الْمَكَانُ وَمَا الْمَكَانُ: چند دن کے لئے آڑنا..... السَّحَابُ: کسی جانب میں متوجہ نہ ہونا۔ الْحَيْرُ: جمنی: ہانٹ۔</p>	<p>الْحَوَاءُ وَالْحَوَاةُ: آواز۔ السَّحْوِيُّ: السَّحْوِيُّ: اتحفاق کے بعد مالک ہونے والا چھوٹا خوش۔</p>
<p>السَّحْيُوسُ: وہ جس کے ماں باپ دونوں غلام ہوں۔ حَاشَهُ (ض) حَيْشًا: گھبراہٹ میں ڈالنا۔ حَاشَ مِنْهُ: گھبرانا..... الرَّجُلُ: جلدی کرنا۔ الوادی: دراز ہونا۔</p>	<p>حَيْرَةٌ: حیرانی میں ڈالنا۔ تَحْيِيرٌ: الْمَاءُ: بمعنی حَايِرٌ الْمَاءُ:..... الْمَكَانُ بِالْمَاءِ: بھر جانا (وَأَسْحَارٌ) حیرانی میں پڑنا۔ اسْتَحَارَ الْمَكَانُ وَمَا الْمَكَانُ: چند دن کے لئے آڑنا..... السَّحَابُ: کسی جانب میں متوجہ نہ ہونا۔ الْحَيْرُ: جمنی: ہانٹ۔</p>	<p>الْحَوَاءُ: قریب قریب گھروں کا مجموعہ۔ ج اخوئیہ۔ السَّحْوِيَّةُ: السَّحْوِيَّةُ: کا مَوْنُثٌ۔ کئی ہوئی آنتیں۔ چھوٹا خوش۔ کبل کہ جس میں گھاس بھوسہ وغیرہ بھر کر اونٹوں کے کوبان کے ارد گرد رکھتے ہیں۔ ج حَوَايَا اور اسی سے مثل ہے ”السَّحْوَايَا عُلَى الْحَوَايَا“ اس شخص کے لئے ہے جو موت کو خود ہی تلاش کرے۔</p>
<p>حَاشَ مِنْهُ: گھبرانا۔ تَحْيِيرٌ: الشِّي: بہت گھبرانے والا۔ حَاصٌ (ض) حَيْصًا وَحَيْصَةً وَحَيْصًا وَمَحْيِصًا وَحَيْصَانًا وَأَنْحَاصٌ وَتَحْيَايِصٌ عَنْ كَذَا: الگ ہونا۔ ہٹ جانا کہتے ہیں ”قَمْنٌ حَاصٌ عَنِ الشَّرِّ سَلِيمٌ“ جو برائی سے الگ رہا محفوظ رہا۔ وَوَقَعَ فِي حَيْصٍ بَيْضٌ أَوْ فِي حَيْصٍ بَيْضٌ“ وہ ایسی بڑی میں پڑ گیا جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔</p>	<p>السَّحَابُ: کسی جانب میں متوجہ نہ ہونا۔ الْحَيْرُ: جمنی: ہانٹ۔ السَّحِيرُ وَالسَّحِيرُ: بہت اہل و مال۔ کہا جاتا ہے ”لَا آتِيهِ خَيْرٌ ذَهْرٌ“ میں اس کے پاس کبھی نہیں آؤں گا۔ الْحَاوَزَةُ: محلہ۔ السَّحَابِرُ: فا۔ پانی جمع ہونے کی جگہ۔ بلند کناروں والی نشیبی جگہ۔ ج حَاوِرَانٌ وَحَيْرَانٌ۔</p>	<p>الْحَوَاءُ: ساپیوں کا جمع کرنے والا۔ حَيْصٌ: ظرف مکان۔ مٹی پر ضرب اور کہا جاتا ہے مین ہذہ (الْحَيْصِيَّةُ) یعنی اس اعتبار سے اور کبھی حیث زمان کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔</p>
<p>حَالِصَةٌ: قریب دینا اور غلبہ کرنا۔ الْاِحْيَايِصُ: وہ شخص جس کی ایک آنکھ دوسری سے چھوٹی ہو۔ دَابَّةٌ (حَيْوُصٌ) بدکنے والا جانور۔ السَّحْيِصُ: بعلجیدہ ہونے کی جگہ۔ بھانگنے کی جگہ۔</p>	<p>السَّحَابِرُ: فا۔ پانی جمع ہونے کی جگہ۔ بلند کناروں والی نشیبی جگہ۔ ج حَاوِرَانٌ وَحَيْرَانٌ۔ السَّحَاوَزَةُ: سببی۔ ج سَحَاوِرٌ: پانی جمع ہونے کی جگہ۔ السَّحَاوِرَانُ: سرین کے دونوں گول سرے جن سے ران کے سرے ملے ہوئے ہیں۔</p>	<p>حَايَجٌ (ض) حَيْجًا: محتاج ہونا۔ أَحَايَجٌ وَأَحْيِجٌ: الْمَكَانُ: کانٹے اگانا۔ الْحَايَجُ: کانٹا۔ ایک قسم کا ترش پودہ۔ خَاوِدٌ (ض) حَيْدًا وَحَيْدَانًا وَمَحْيِدًا وَحَيْدَةً وَحَيْوَدًا وَحَيْدُودَةً: عَنِ الطَّرِيقِ: الگ ہونا۔ ہٹ جانا۔ حَيْدَةٌ: گرہ پر کر دینا۔ حَيْدَةُ السَّيْرِ: تسمہ میں گرہ لگانا۔</p>
<p>حَالِصَةٌ: قریب دینا اور غلبہ کرنا۔ الْاِحْيَايِصُ: وہ شخص جس کی ایک آنکھ دوسری سے چھوٹی ہو۔ دَابَّةٌ (حَيْوُصٌ) بدکنے والا جانور۔ السَّحْيِصُ: بعلجیدہ ہونے کی جگہ۔ بھانگنے کی جگہ۔</p>	<p>السَّحَابِرُ: فا۔ پانی جمع ہونے کی جگہ۔ بلند کناروں والی نشیبی جگہ۔ ج حَاوِرَانٌ وَحَيْرَانٌ۔ السَّحَاوَزَةُ: سببی۔ ج سَحَاوِرٌ: پانی جمع ہونے کی جگہ۔ السَّحَاوِرَانُ: سرین کے دونوں گول سرے جن سے ران کے سرے ملے ہوئے ہیں۔</p>	<p>حَايَجٌ (ض) حَيْجًا: محتاج ہونا۔ أَحَايَجٌ وَأَحْيِجٌ: الْمَكَانُ: کانٹے اگانا۔ الْحَايَجُ: کانٹا۔ ایک قسم کا ترش پودہ۔ خَاوِدٌ (ض) حَيْدًا وَحَيْدَانًا وَمَحْيِدًا وَحَيْدَةً وَحَيْوَدًا وَحَيْدُودَةً: عَنِ الطَّرِيقِ: الگ ہونا۔ ہٹ جانا۔ حَيْدَةٌ: گرہ پر کر دینا۔ حَيْدَةُ السَّيْرِ: تسمہ میں گرہ لگانا۔</p>
<p>الْحَيْصَاءُ وَالْمَحْيَايِصُ: وہ عورت جس کی اندام نہانی تنگ ہو۔</p>	<p>السَّحْيَارُ: بہت حیران۔ السَّحْيَارَاتُ: کواکب۔ سیارہ۔ واحد (متحیرہ)</p>	<p>حَايَجٌ (ض) حَيْجًا: محتاج ہونا۔ أَحَايَجٌ وَأَحْيِجٌ: الْمَكَانُ: کانٹے اگانا۔ الْحَايَجُ: کانٹا۔ ایک قسم کا ترش پودہ۔ خَاوِدٌ (ض) حَيْدًا وَحَيْدَانًا وَمَحْيِدًا وَحَيْدَةً وَحَيْوَدًا وَحَيْدُودَةً: عَنِ الطَّرِيقِ: الگ ہونا۔ ہٹ جانا۔ حَيْدَةٌ: گرہ پر کر دینا۔ حَيْدَةُ السَّيْرِ: تسمہ میں گرہ لگانا۔</p>

حاضت (ض) حیضاً ومحيضاً ومخاصاً
وتحيضت. المرأة: ماہواری خون جاری
ہو۔ صفت (حائض وحائضہ) ج حیض
وحوائض۔

حیض. الماء: پانی بہانا۔
الحیاض: حیض کا خون۔

الحیضۃ والمحيضۃ: حیض کا جیتروا۔

حیعل. المؤذن: حی علی الصلوة حی
علی الفلاح: کہنا۔

خاف (ض) حیفاً. علیہ: ظلم کرنا۔ صفت
(خائف) حیف وحیف وخافة۔

تحیف. الشی: کم کرنا۔ اطراف سے
گھٹانا۔

الخائف: فا۔ خائف الجبل: پہاڑ کا
کنارہ۔

الجيفة: گوشہ۔ کپڑے کا ٹکڑا جو تیس کے
دامن میں بیوند لگایا جائے۔ شکار کے واسطے
ہنکایا ہوا جانور۔ حی حیف۔

الاحيف. من الامكنة: وہ جگہ جہاں بارش
نہ ہو۔ مؤنث حیفاء۔

حاق (ض) حیفاً وحیوقاً وحیقاناً
وأحاق إحاقاً. یہ: احاط کرنا۔ گھیرنا۔ حاق

بہم الامر: لازم ہونا۔ واجب ہونا۔ بہم
العذاب: نازل ہونا۔ حیہ السیف: اثر

کرنا۔ نشان ڈالنا۔ أحاق الشی بكذا:
گھیرا کرنا۔

حایقہ مُحایقۃ: حد کرنا۔ دشمنی کرنا۔ بغض
رکھنا۔

إحطاق. علی الشی: احتیاط کرنا۔

الحقیق: نڈ سے فعل کی وجہ سے جو کچھ انسان کو
لازم ہو جائے۔

الحیقل: بے فیض آدمی۔

حاک (ض) حیکاً وحیکاناً: متکبرانہ
چال چلنا۔ صفت (حساک وحساک)

مؤنث حیاکۃ وحیکانۃ وحیکسی
(وأحاک) السیف: کاٹنا السیف

او الکلام فیہ: اثر کرنا۔

إحساک حیسیاً. بقریبہ: لپٹنا۔ مشیۃ
(حیکسی) متکبرانہ چال۔

حال (ض) حیولاً. الشی: بدلنا السماء:
وادی میں جمع ہونا۔

الحییل. قوۃ: وادی میں جمع شدہ پانی۔ حی
أحیال وحیول۔

الأحییل والأحیول: بہت حیلہ کرنے والا۔
السجیلۃ: ہوشیاری۔ دور بینی۔ تصرف کی

قوت۔ حییل۔
السخیلة: بکریوں یا بھیڑوں کا ریوڑ۔ حیلہ

گری۔
العجیلان: غلہ گاہنے کا اوزار۔

حان (ض) حیناً وحینونۃ. الشی: وقت
قریب ہونا۔ فلان: ہلاک ہونا۔ ریح

وتکلیف میں پڑنا۔ توفیق سے محروم ہونا۔
حان لہ أن یفعل کذا: وقت قریب آنا۔

السئیل: خشک ہو کر کٹائی کا وقت قریب آنا۔
حینۃ: وقت ومعاہد مقرر کرنا۔ اللہ فلانا:

ہدایت کے لئے توفیق نہ دینا۔
حاینہ: وقت معین کے لئے معاملہ کرنا۔

أحین حیساناً. الرجل أو الشی: وقت آنا
..... بالمکان: کچھ وقت کے لئے قیام کرنا۔

أحاندہ. اللہ: ہلاک کرنا۔
تحنین. منہ غفلة: انتظار کرنا۔ کہا جاتا ہے "هو

یتحنین طعام الناس" وہ لوگوں کے کھانے کے
وقت کا انتظار کرتا ہے۔ توفیق و ہدایت سے محروم

رہنا۔
إستحین: وقت مناسب کی آرزو رکھنا۔

الحان والحانة: شراب فروشی کی دکان۔
الحین: ہلاکت۔ ریح و صحت۔

العین: وقت۔ حی آحیان. حی آحایین.
العینۃ والمیحیان: وقت۔

الحانین: فا۔ بے وقوف۔
الحائنة: مصیبت۔ حی حوائین.

حسی (س) حیافۃ: زندہ رہنا۔ اس میں
ایک لغت ادغام سے بھی ہے۔ کہا جاتا ہے

حی یحی (..... حیافۃ) منہ: متبغض ہونا۔

الطریق: ظاہر ہونا۔

حیافۃ وتحیافۃ. حیاک اللہ: کہنا (یعنی اللہ
عزوجل تمہاری عمر دوا کرے) سلام کرنا۔ حیافۃ

اللہ: باقی رکھنا۔
کہا جاتا ہے: "حیافۃ الخفسین من غنبرہ"

وہ اپنی عمر کے پچاسویں سال کے قریب
پہنچا۔

حایاناً وحایافۃ. الصبی: غذا دینا..... زیذا:
شرم دلانا..... النار: بھڑکانا۔

أحیافۃ: زندہ کرنا..... النار: بھونک کر سلگانا
..... الارض: سرسبز بنانا۔

السرائد الارض: گھاس پانی طلب
کرنے والے کا زمین کو سرسبز پانا..... اللہ:

بیدار رہنا۔ (أحیافہ واستحیافہ) زندہ
چھوڑنا۔

إستحیافاً واستحیافۃ منہ: شرم کرنا۔ إستحیافۃ
وإستحیافۃ منہ: متبغض ہونا۔ بازرہنا۔

حی وحی ہلا وحیئل: اسم فعل بمعنى أقیل
وعجیل: کہا جاتا ہے "حی علی الصلوة"

یعنی نماز کیلئے آؤ۔ (حی هل) بقلان: فلاں
کو بلاؤ۔

الحیا والحیاء: بارش۔ تروتازگی۔
نباتات۔

الحیاء: شرم وحیاء۔ کسی چیز سے متبغض ہونا
اور ملامت کے خوف سے چھوڑنا۔ بارش و

تروتازگی۔ توبہ۔
الحیافۃ: زندگی۔

الحی: زندہ۔ نسبت کے لئے (حیوی)
مؤنث حیۃ. أرض حیۃ: سرسبز زمین۔ کہا

جاتا ہے "لا یغرف الحی من اللی" یعنی وہ
بے وقوف ہے۔ الحی: محلہ۔ عرب کے

قبیلوں میں سے چھوٹا قبیلہ۔ حی آحیاء.
الحی والحی: شرم دلانا۔

الحیوان: جاندار۔ حی حیوانات.
الصحیافۃ: وہ موقع جہاں شرم کی جائے۔ حی

صحی: زندگی۔
المحیافۃ: چہرہ۔



الخَيْبَةُ والخَيْبَةُ: تَوَاضَعٌ - عَاجِزِيٌّ - فِرْدَوْسِيٌّ -
الْخَيْبِيَّتُ: جَمِيرٌ وَفِرْدَاوَيْهِ وَخَيْبِيَّتٌ - كَمَا جَاءَ أَنَّهُ
"هُوَ خَيْبِيَّتُ النِّفْسِ" وَهُوَ شَكَلَتُ دَوْلٍ - هُ-

خَيْبُ (ن): خَيْبًا وَخَيْبَانَةً وَخَيْبَانِيَّةً: پَلِيدٌ وَ
تَاپَاكٌ هُونَا - صَفْتُ (خَيْبِيَّتٌ) بِخَيْبِ
وَخَيْبَانًا وَخَيْبَانًا وَخَيْبَةً: خَبَّتُ نَفْسَهُ: جَعِي
مَثَلَانَا..... بِالْمَرَاةِ: زَنَا كَرْنَا -

خَيْبُ (ك): خَيْبًا: زَرَدِيٌّ هُونَا - مَكَارٌ هُونَا -
..... وَأَخْبَيْتُ: بَرَّعْتُ لَوْكُوں كَسَا تَهْرَهْنَا -
وَأَخْبَيْتُهُ: بَرَأْتُ سَكْهَلَانَا - خَرَابُ كَرْنَا - بَرَأْتُ
كِي طَرْفُ مَسْرُوبُ كَرْنَا -
خَيْبَةُ: خَيْبِيَّتٌ بَنَانَا..... الطَّعَامُ: كَحَلَانُ كُو
تَا كُوَارُ كُرُوِينَا -

تَخَابَتُ: بَرَأْتُ ظَاهِرُ كَرْنَا وَرَأْسُ مَعْمَلُ كَرْنَا -
تَخَابَتُ: تَخَلَّفَ شَرَارَتُ كَرْنَا -
اسْتَخَابَتُ: بَرَأْتُ شَرَارَتُ كَرْنَا..... هُ:
بَرَأْنَا -

الْخَيْبُ: مِثْنُ الْحَدِيدِ وَنَحْوَهُ: لَوْ هُ كَانَ
مِيلُ سُونِي يَا لَوْ هُ كَانَ كَثُوثٌ - بِي فَانِدُهُ
چِيَزُ -

خَيْبَاتُ: بِرُوزَنُ قَطَامُ: خَيْبِيَّةٌ: سَا مَعْدُولُ
سَا مَعْدُولُ نَدَا كِي سَمُورَتُ مِثْنُ مَعْمُولُ كُو كَالِي
دِينِي كَلَيْ آتا سَا جِيسِي "بَا خَيْبَاتُ" سَا
بَد كَارِ عَوْرَتُ -

خَيْبُ: خَيْبِيَّتٌ: سَا مَعْدُولُ سَا مَعْدُولُ سَا مَعْدُولُ
سَمُورَتُ مِثْنُ مَعْمُولُ كُو كَالِي دِينِي كَلَيْ
لَيْ آتا سَا جِيسِي "بَا خَيْبُ" مِثْنُ سَا مَعْدُولُ
مَرْدُ -

پرانے کپڑے (تعداداً) کی جس سے
صفت میں جمع لانا جائز ہے۔

الْخَيْبِيَّتُ: زَمِينٌ مِثْلُ لِبَاءِ -
الْبَيْبِيَّةُ: زَمِينٌ يَابِدِيٌّ كِي دَمَارِنُ - كُو شَتُ كَا
پَارُ چَرُ - وَادِيٌّ كَا دَرَمِيَانِيٌّ حَصَّ - مَجَّ خَيْبَانِبُ -
الْمَخْبِيَّةُ: وَادِيٌّ كَا دَرَمِيَانِيٌّ حَصَّ -

خَيْبًا (ف): خَيْبًا زَنْبِيًّا الشَّيْ: چھپانا -
پوشیدہ کرنا -
خَيْبَانَةٌ: كَسِي سَا چِيستَاں وَپَهْلِي كَهْنَا -

إِخْبَانًا: مَنهُ: چھپنا..... الشَّيْ: چھپانا - كَمَا جَاءَ تَا
سَا "إِخْبَانًا خَيْبًا" سَا نِي سَا سَا سَا سَا سَا
چِيَزُ پُوشِيْدِهِ كِي اُوْر پَهْرَا سَا سَا دَرِيَا فَا تُ كَمَا -
الْأَخْبُءُ وَالْمَخْبِيُّ: پُوشِيْدُهُ - خَبُّءُ
الْأَرْضِ: نَبَاتَاتُ - خَبْبُءُ السَّمَاءِ:
بَارَشُ - كَتْبِي هِي "أَخْرَجَ خَبْبُءُ السَّمَاءِ
خَبْبُءُ الْأَرْضِ" بَارَشُ نِي نَبَاتَاتُ كُو آگَا يَا -

الخَيْبَاءُ: اُوْنُ يَابِلُوں كَا خَيْمُرُ - مَجَّ أَخْبِيَّةُ
الْمَخْبِيَّةُ: پُوشِيْدَهُ رَجِي هُونِي چِيَزُ - مَجَّ خَيْبَانَا
الْمَخْبَاتِيَّةُ وَالْمَخْبَاتِيَّةُ: مَكَانُ - مَجَّ الْمَخْبَوَابِي
وَالْمَخْبَوَابِي: بِنْتُ الْمَخْبَاتِيَّةُ: شَرَابُ -
الْمَخْبَاةُ: بَهْتُ پُوشِيْدَهُ رَسْتِي دَالِي عَوْرَتُ -
الْمَخْبِيَّةُ: چِيْسِي كِي جُكِدُ - مَجَّ مَخْبَانِي -

خَيْبُ (ض): خَيْبًا: دِيْكَوْرَةُ: پُوشِيْدُهُ هُونَا -
مَعْمَلِيٌّ هُونَا -
أَخْبَيْتُ: الْقَوْمُ: كَشَادُهُ وَپَسْتُ زَمِينُ مِثْنُ
آتَا..... إِي اللهُ: عَاجِزِيٌّ وَفِرْدَوْسِيٌّ كَرْنَا -
الْمَخْبُتُ: كَشَادُهُ وَپَسْتُ زَمِينُ - مَجَّ أَخْبَانِ
وَخَيْبُوتُ -

السَّخْبَةُ: مُثْلِفَةُ السَّخْبَاءِ: زَمِينُ يَابِدِيٌّ كِي
دَحَارِيٌّ - مَجِّي كِي طَرْحُ دَجِي - الْمَخْبِيَّةُ: پَانِي كِي
بِنْدُ هُونِي كِي جُكِدُ - وَادِيٌّ كَا دَرَمِيَانِيٌّ حَصَّ -
كُو شَتُ كَا پَارُ چَرُ -
لُوبُتُ (جَيْبُتُ وَخَيْبَانِبُ وَآخْبَانِبُ) پَچْنِي

خ: الخاء: بنيادی حروف میں سے ساتواں
حرف ہے۔

خَبُّ (ن): خَيْبًا. النَبَاتُ: پَلِيدٌ هُونَا - بَرُهْنَا
..... الزَّجْلُ: اِنجِي چِيَزُ كُو رُكْنَا - مَعْمَلُ كِي دَجِي سَا
بِي نِشَانُ هُونِي كِي لَيْ پَسْتُ زَمِينُ مِثْنُ اُوْر
آتَا..... خَبًّا وَخَيْبًا وَخَيْبَانًا وَخَيْبَانِيَّةً
الْفَرَسُ فِي عَذْوِهِ: گھوڑے کا دوڑنے میں
کبھی اگلی ٹانگوں پر گھڑا ہونا اور کبھی پچھلی پر۔
..... خَيْبًا وَخَيْبَانًا: الْبَحْرُ: جُوشُ مَارْنَا -

خَبُّ (س): خَيْبًا وَخَيْبًا: مَكَارٌ هُونَا -
خَيْبِيَّةٌ: دَهْوَا كُو دِيْنَا - خَرَابُ كَرْنَا - كَمَا جَاءَ تَا
"خَبُّ عَلِيٍّ فُلَانٌ صَدِيقُهُ" سَا نِي فُلَانُ
كِي دُورَتُ كُو بَاگَا زُو دِيَا - خَبَّبْتُ لِحْمَهُ: كُو شَتُ
كِي جَاتِي رُجْنِي سَا جَمِيرَا پَرْنَا -

أَخْبُ: الْفَرَسُ: گھوڑے کو خَيْبُ: چال چلانا
(دیکھئے مصدر خَيْبُ)
الْمَخْبُ: مَخْسٌ - دَعَا بَارُ - فَرْمِي - فَسَادُ - زَمِينُ
كِي دَحَارِيٌّ - نَزْمُ زَمِينُ جُودُ وَخَتْ زَمِينُوں كِي
دَرَمِيَانُ هُونَا - مَجَّ خَيْبُوتُ كَتْبِي هِي "أَصَابَهُمُ
الْمَخْبُ" مِثْنُ ہوا مِثْنُ اِن پَر چِيچِيْدَهُ ہوا مِثْنُ اُوْر
مُو جُوں مِثْنُ اَضْطْرَابُ ہوا مِثْنُ -

الْمَخْبُ: پَسْتُ زَمِينُ - دَرُخْتُ كِي چھال - مَجَّ
خَيْبُوتُ وَآخْبَانِبُ -

السَّخْبَةُ: مُثْلِفَةُ السَّخْبَاءِ: زَمِينُ يَابِدِيٌّ كِي
دَحَارِيٌّ - مَجِّي كِي طَرْحُ دَجِي - الْمَخْبِيَّةُ: پَانِي كِي
بِنْدُ ہونے کی جُكِدُ - وَادِيٌّ كَا دَرَمِيَانِيٌّ حَصَّ -
كُو شَتُ كَا پَارُ چَرُ -
لُوبُتُ (جَيْبُتُ وَخَيْبَانِبُ وَآخْبَانِبُ) پَچْنِي

الخصاؤر: ایک درخت کا نام۔ راس العین اور فرات کے درمیان ایک ندی کا نام۔

المغبر والمغبرة والمغبرة: آگاہی جو خبر یا آزمائش سے حاصل ہو۔

مغبر (ض) مخبر۔ المغبر: روٹی پکانا۔

القوم: روٹی کھانا۔ کہا جاتا ہے "مغبرنہم وتموتنہم" میں نے ان کو روٹی سمجھ رکھی تھی۔

مغبرہ ومغبرہ: مارنا۔ کہا جاتا ہے "مغبرنی برجلہ ومغبرنی" اس نے مجھ کو اپنے پیروں سے مارا۔

المغبر: المكان: پست ہوتا۔

المغبر: روٹی پکانا۔

المغبر: روٹی۔ مغبر العراب: ایک قسم کی نباتات جس میں روٹی کی مانند گول گول نکلیں نکلتی ہیں۔

المغبر: پست جگہ۔

المغبر: فاد۔ روٹی والا۔

المغبر: پکی ہوئی روٹی۔ شہید۔

المغبر: تانبائی کا پیشہ۔

المغبر: تانبائی۔

المغبر: المغبر والمغبر والمغبر والمغبر۔

المغبر (ن) مغبر والمغبر والمغبر۔

المغبر: لے لینا۔ غنیمت حاصل کرنا۔ کہا جاتا ہے "مغبر فلانا حقہ" فلاں نے اس کے حق کو مار لیا۔

المغبر والمغبر والمغبر والمغبر: شہید۔

المغبر: وہ چیز جو ظلم لے لی جائے۔

المغبر والمغبر: غنیمت۔

المغبر (ن) مغبر والمغبر والمغبر من ہننا وھننا: ادھر ادھر سے جمع کرنا۔

المغبر: کمائی کرنے والا۔

المغبر: المغبر والمغبر والمغبر: زندگی بسر کرنے کی چیزیں جیسے کھانا، کپڑا وغیرہ۔

المغبر: مختلف قوموں کی جماعت۔

المغبر (ض) مغبر: المغبر بالمغبر: ملانا

المغبر: الامر: حقیقت حال سے واقف ہونا۔

المغبر والمغبر: خبر دریافت کرنا۔ مغبر القوم: بکری کو خرید کر ذبح کرنا اور اس کے گوشت کو آپس میں تقسیم کرنا۔

المغبر: الشئ: آزمانا۔ حقیقت حال سے واقف ہونا۔ لاهلہ: اپنے گھروالوں کے لئے کھانا لینا۔

المغبر: لیبارثری (سائس روم)

المغبر: بڑا توشہ دان۔ بڑا زیادہ دودھ والی اونٹنی۔ بھتی۔ پہاڑ میں پانی جمع ہونے کی جگہ۔ بیری یا اراک کا درخت اور اس کے ارد گرد کی گھاس۔ واحد (مغبر) ج مغبر۔

المغبر: مصل۔ بڑا توشہ دان۔ زیادہ دودھ والی اونٹنی۔

المغبر: علم۔ تجربہ۔ آزمائش۔ کہا جاتا ہے "صدق المغبر" آزمائش نے خبر کی تصدیق کر دی۔ زجمل مغبر ومغبر: خبر کا جانتے والا۔

المغبر: خبر۔ ج مغبر والمغبر۔

المغبر: تاریخ کی تدوین کرنے والا مورخ۔

المغبر: بڑا توشہ دان۔ بیری کے درختوں کو اگانے والی زمین۔ ج مغبر والمغبر وغیر اوقات۔

المغبر: مصل۔ بکری جس کو لوگ مختلف قیمت دے کر خریدیں اور پھر آپس میں تقسیم کر لیں اور ہر ایک کو اس کی قیمت کے لحاظ سے ملے۔ زیادہ شہید۔ خوراک وغیرہ جو مال وعیال کے لئے خریدی جائے۔ کہا جاتا ہے "اجتمعوا علی مغبرہ" وہ لوگ اس کے کھانے پر جمع ہو گئے۔ سالن۔

المغبر: نرم زمین۔ جریں۔ واحد (مغبر)۔

المغبر: واقف۔ آگاہ۔ دانا۔ کسان۔ ج مغبر: بھینٹ۔ اونٹ کے بال۔ گرے ہوئے بال۔ واحد (مغبر) ج مغبر۔

المغبر: مغبر کی تیزی کا کم ہونا۔

المغبر (ن) مغبر والمغبر: الشئ: آزمانا۔ تجربہ سے جانا۔

المغبر (ن) مغبر: الارض: بھتی کے لئے جوتا۔ طعام: مرغن کرنا۔

المغبر (ک) وغبر (ف) مغبر والمغبر والمغبر والمغبر: الشئ: وہ حقیقت حال سے واقف ہونا۔

المغبر والمغبر: الشئ: آگاہ کرنا۔ خبر دار کرنا۔ کہا جاتا ہے "المغبرہ مغبرہ" یعنی اس نے اطلاع دی ہر اس چیز کی جو اس کے پاس تھی۔

المغبر: ثبانی پرکھیت جوتا۔ پروا کرنا۔ بعضوں نے گفتگو کرنے اور بحث کرنے کے معنی میں استعمال کیا ہے۔

المغبر: ایک دوسرے کو خبر دینا۔

المغبر: ایک دوسرے کو خبر دینا۔

المغبر: ایک دوسرے کو خبر دینا۔

المغبر: ایک دوسرے کو خبر دینا۔

المغبر: ایک دوسرے کو خبر دینا۔

المغبر: ناپاک۔ گھٹیا۔ ناپسندیدہ چیز۔ ہر امر چیز۔ ہر شراب چیز۔ ج مغبر والمغبر والمغبر: مؤنث مغبرہ: ج مغبر والمغبر۔

المغبر: وہ چیزیں جن کو عرب گندی سمجھتے تھے اور کھاتے نہیں تھے۔ جیسے سانپ وگہریا وغیرہ۔

المغبر: پیشاب پانخانہ۔

المغبر: بڑا بدکار۔ بڑا شریر۔

المغبر: پلیدی۔

المغبر: سبب فساد۔ کہا جاتا ہے "المغبر مغبرة لنفس المنعم" ناشکر می منعم کی طبیعت کے لئے باعث فساد ہے۔

المغبر (ن) مغبر: بالعصا: لاشی سے مارنا۔ الزجمل: گوز کرنا۔

المغبر والمغبر: بے وقوف۔

المغبر والمغبر: گوز۔

المغبر: ڈھیلے پیٹ والا ہونا۔

المغبر: ہے وفائی کرنا۔

المغبر: الشئ المضطرب: ڈھیلا ہونا۔

المغبر: ہونا۔

المغبر: گرمی کی تیزی کا کم ہونا۔

المغبر (ن) مغبر والمغبر: الشئ: آزمانا۔ تجربہ سے جانا۔

المغبر (ن) مغبر: الارض: بھتی کے لئے جوتا۔ طعام: مرغن کرنا۔

المغبر (ک) وغبر (ف) مغبر والمغبر والمغبر والمغبر: الشئ: وہ حقیقت حال سے واقف ہونا۔

المغبر والمغبر: الشئ: آگاہ کرنا۔ خبر دار کرنا۔ کہا جاتا ہے "المغبرہ مغبرہ" یعنی اس نے اطلاع دی ہر اس چیز کی جو اس کے پاس تھی۔

المغبر: ثبانی پرکھیت جوتا۔ پروا کرنا۔ بعضوں نے گفتگو کرنے اور بحث کرنے کے معنی میں استعمال کیا ہے۔

المغبر: ایک دوسرے کو خبر دینا۔

المغبر: ایک دوسرے کو خبر دینا۔

المغبر: ایک دوسرے کو خبر دینا۔

المغبر: ایک دوسرے کو خبر دینا۔

المغبر: ایک دوسرے کو خبر دینا۔

الخَبِيلُ: مفس - قرض - مٹھی - تندر (.....) (والخبيل): ہاتھ پاؤں کی تباہی ج خُبُول.	الخَبِيضُ: غبار۔	(.....) خَبِيضٌ وَخَبِيضٌ وَخَبِيضٌ) کھجور اور گھی کا حلوا بنانا۔ اخْبِيضُ الرَجُلُ: اپنے لئے کھجور اور گھی کا حلوا بنانا۔ کھجور گھی کا حلوا کھانا۔
الخَبِيلُ: ایک پرندہ جس کی آواز الوی کی آواز کے مشابہ ہے۔ دَهِرٌ (خبيل) بگڑا ہوا زمانہ۔	الخَبُوطُ وَالْخَبِيطُ وَالْاَخْبِطُ: مِنَ الْخَبِيلِ: زمین پر پاؤں مارنے والا گھوڑا۔	الْخَبِيضُ وَالْخَبِيضَةُ: کھجور اور گھی کا حلوا۔
الْخَبَالُ: فساد - نقصان - ہلاکت - زہر قاتل - کہا جاتا ہے "هُوَ خَبَالٌ عَلَى اَهْلِهِ" وہ اپنے لوگوں کے لئے بوجھ ہے۔	الْخَبِيضُ: حوش جس کو اونٹوں نے پاؤں مار کر گرا دیا ہو۔ وہی جس میں تازہ دودھ ڈال کر ملا دیا گیا ہو۔	الْمَخْبِضَةُ: کڑھائی میں حلوے کو اٹتے پلٹنے کا چمچ۔
الْخَابِلُ: فسادی - شیطان - جن - کہا جاتا ہے "مَسَّهُ الْخَابِلُ" اس کو جن نے دیوانہ بنا دیا۔ الْخَابِلَانُ: رات دن۔	الْمَخْبِطُ وَالْمَخْبِطَةُ وَالْمَخْبِطُ: پتے چھاڑنے کا ڈنڈا۔ دھوبی کی موگری۔	خَبَطَهُ (ض) خَبَطًا: زور سے مارنا۔
الْمُخْبِلُ: فَاْمُخْبِلٌ: بغیر الف لام کے زمانہ کے ناموں میں سے ہے۔	خَبِعَ (ف) خَبْعًا: فِي الْمَكَانِ: داخل ہونا	الشَّيْءُ: بخت روندا..... اللیل: میزھا میزھا چلنا۔ کہا جاتا ہے "إِنَّهُ يَخْبِطُ خَبَطَ عَشْوَاءَ" وہ تو تندی والی آدمی کی طرح میزھا میزھا چلتا ہے۔ یعنی امور میں بغیر بصیرت کے تصرف کرتا ہے۔ "وَمَا أَدْرَى أَيُّ خَبَابِطٍ لَيْسَ هُوَ" میں نہیں جانتا کہ گناہم رات میں آنے والا کون ہے۔
الْمُخْبِلُ: دیوانہ - تھردالا - وہ شخص جو دروکی وجہ سے اچھی طرح چل نہ سکتا ہو۔	الْمُخْبِطُ وَالْمُخْبِطَةُ وَالْمُخْبِطُ: پتے چھاڑنے کا ڈنڈا۔ دھوبی کی موگری۔ الشَّيْطَانُ زَيْدًا: دیوانہ کر دینا۔
خَبِنَ (ض) خَبْنًا وَخَبَانًا: الثوب: موڑ کر سینا..... الشاعِرُ: شعر میں خبین: واقع کرنا (دیکھئے الخبین) (.....) وَأَخْبِنَ الطَّعَامَ: کپڑے کی تہ میں چھپانا۔	خَبِنَ (ض) خَبِنًا: گوز کرنا..... ہ: اپنے سے حقیر جانا۔	بَخِيرَ: بغیر جان پہچان کے دینا۔ البَعِيرُ: منہ کی چوڑائی میں لبا داغ لگانا.....
إِخْبِنَ الشَّيْءُ: کپڑے کی تہ میں چھپانا۔	تَخَبَّقَ الشَّيْءُ: بلند ہونا۔	الشجرۃ: پتے چھاڑنا۔
الْخَبْنَةُ: کپڑے کی تہ۔ خوراک جو دامن کی تہ میں لے جائے۔ ج خَبْنِ.	الْخَبْنُ: بہت کودنے والا مرد۔ تیز رفتار گھوڑا۔	خَبَطَ: زکام ہونا۔ صفت (مخبوط)
الْخَبْنُ: فِي الْعَرُوضِ: علم عروض کی اصطلاح میں سب خفیف سے ساکن کو حذف کر دینا۔ جیسے فاعِلُنْ سے فاعِلُنْ رَجُلٌ (خَبْنٌ): مرد کہ جس کے اعضاء سٹے ہوئے ہوں۔	الْخَبْلُ: بہت کودنے والا مرد۔ تیز رفتار گھوڑا۔	تَخَبَّطَهُ: زور سے مارنا..... الشَّيْطَانُ زَيْدًا: دیوانہ کر دینا..... السَّلَاذُ: فتنہ و فساد و لوٹ مار واقع ہونا۔ تَخَبَّطَ الشَّيْءُ: روندا۔
خَبَا (ن) خَبَا وَخَبُوًا: خبت النارِ او السجدة: بچھنا۔ دھیما پڑنا۔ کہا جاتا ہے "خَبَا لَهُمْ" اس کے غصہ کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔	خَبَلَهُ (ن) خَبَلًا وَخَبَلَهُ: خراب کرنا۔ بگاڑنا..... ه الحزن: عقل کوتاہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "خَبَلَ الْحُبُّ قَلْبَهُ" محبت نے اس کے دل کوتاہ کر دیا..... يذہ: لٹچا کرنا..... ه عن كذا: روکنا۔ منع کرنا۔ کہا جاتا ہے "خَبَلَ عَن فِعْلٍ أَيْه" اس نے اپنے باپ کے رویہ سے کوتاہی کی۔	الْمَخْبِطَةُ: اس کے اوپر جمال و خوبصورتی کا پتھ اثر ہے۔
أَخْبَى النَّازُ: آگ بجھانا۔	خَبِلَ (س) خَبَلًا وَخَبَالًا: جنون لاحق ہونا۔ صفت (خَبِلٌ وَأَخْبِلٌ) خَبِلَتِ الْيَدُ: لٹچا ہونا۔	الْمَخْبِطَةُ: اس کے اوپر جمال و خوبصورتی کا پتھ اثر ہے۔
أَخْبَى الشَّيْءُ: چھپانا۔	أَخْبَلَهُ: ناقة: عاریت پر دینا۔	الْمَخْبِطَةُ: ہر چیز کا کچھ حصہ۔ کہا جاتا ہے "كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ خَبْطَةِ مِنَ اللَّيْلِ" یہ رات کے کچھ حصہ کے بعد ہوا۔ الْخَبْطَةُ مِنَ الْمَاءِ: پانی کا گھونٹ۔ ج خَبَطَ.
الْخَبْيَاءُ: اُونٹ یا اونٹ کے بالوں کا خیر۔	إِخْبَلَهُ: عقل کو خراب کرنا۔ إِخْبَلَتْ الدَّابَّةُ: جانور کا اپنی جگہ میں نہ ٹھہرنا۔	
بالی میں جو یا گے ہوں کا چھلکا۔ کلی کا غلاف ج	تَخَبَّلَتْ: اليذ: لٹچا ہونا۔	
	إِسْتَخْبَلَهُ: الابل: عاریت پر مانگنا۔	

اخْبِيئَة.

خَحْتُ (ن) خَحَّأ. الْإِسْنَانُ إِلَيْهِ: پیاپے نیزہ مارنا۔

أَخَحَّهُ: حصّہ کم کرنا۔ أَخَحْتُ الرَّجُلُ: باپ کے ذکر پر شرمندہ ہونا۔

الْخَحْتُ: بدن کی سستی۔

الْخَحِيثُ: گھنیا ناپس۔

خَحَّأَ (ف) خَحَّأ. عَنِ كَذَا: روکنا۔ مَحَّ كَرْنَا۔

إِخْتَأَى: خوف وغیرہ سے رنگ بدل جانا۔

مَسَّنَ فُلَانٌ شَرْمٌ ذُرِّيَاؤُكَ كِي وَجَدَ سَ جَچھنا۔ لَ: فریب دینا۔ الشُّيْ: اُچک لینا۔

مَفَاذَةٌ (مُخْتَصَّةٌ) بِيَا بَانَ جَس مِيس رَاسْتَه مَلَا ہو۔

خَحَّرَهُ (ض) خَحَّرَا: بری طرح سے بے وفائی کرنا۔ صفت (خَابِرٌ وَخَحَّارٌ وَخَبِيرٌ وَخَسُورٌ وَخَبِيرٌ)۔ (ن ض) خَحَّرَا وَخَحُّورًا. نَفْسُهُ: جی بگڑنا۔

خَحَّرَ (س) خَحَّرَا: زہریادو وغیرہ پینے کی وجہ سے بے حس ہونا۔

تَخَحَّرَ: سست و ڈھیلا ہونا۔ مرض وغیرہ کی وجہ سے سست ہونا۔

خَحَّرَهُ الشَّرَابُ: نے حس کر دینا۔

خَحَّرْنَاهُ: کاٹنا اور کھلے کھلے کرنا۔

خَحَّرَمَ خَحَّرَمَةً: عاجزی یا گھبراہٹ کی وجہ سے چپ رہنا۔

خَحَّعَ (ف) خَحَّعَا وَخَحَّوْعَا. الدَّلِيلُ بِالْقَوْمِ: اندھیرے میں راہبری کرنا۔ علی القوم: اچانک آجانا۔ (وَإِنْ خَحَّعَ) فَمِ الْأَرْضِ: دور تک نکل جانا۔

الْخَحْوَعُ وَالْخَحْوَعُ وَالْخَحْوَعُ: ماہر راہبر۔ الْخَوْعُ: خرگوش کا بچہ۔ الْخَوْعُ: بَجْوُ الْخَحْوَعَةِ: مادہ چیتا۔

الْخَحْوَعُ: چمڑے کا دستاں جو باز پالنے والے باز کے بچوں کے خوف سے ہاتھ میں چپتے ہیں۔

خَحَّوْلَةٌ (ن ض) خَحَّوْلَا وَخَحَّوْلَا وَخَحَّوْلَا: خَحَّوْلَةٌ: فریب دینا۔ کہا جاتا ہے "خَحَّوْلٌ الْصَّبَاؤُ" یعنی آہستہ آہستہ چلاتا کر شکار کو احساس نہ ہو۔ صفت (خَحَّوْلٌ وَخَحَّوْلٌ) تَخَحَّوْلُوا: باہم ایک دوسرے کو فریب دینا۔

إِخْتَبَلَ لِأَسْرَارِ الْقَوْمِ: چوری سے سنا۔

إِخْتَبَلَ الرَّجُلُ: فریب دینا۔

الْبِخْتَلُ: چھینے کی جگہ۔ خرگوش کا سوراخ۔ الْغَوْقَلُ: خوش طبع و دانامرد۔ الْخَحَّالُ: بڑا فریبی۔ مَوْنَتْ خَحَّالَةٌ.

خَحَّمُ (ض) خَحَّمَا وَخَحَّمَا. الشُّيْ وَعَلِيهِ: مہر لگانا۔ الْعَمَلُ: ختم کرنا۔ الْكِتَابُ: پوری پڑھ لینا۔ الْإِنَاءُ: مٹی وغیرہ سے بند کرنا۔ کہا جاتا ہے "خَحَّمُ عَلَيْكَ بَابَهُ" یعنی اس نے تم سے اعراض کیا۔ الْكَلْمَةُ بِالْخَيْرِ: اچھا انجام کرنا۔ عَلِيٌّ قَلْبُهُ: بے کجھ کر دینا۔ السَّرْوَعُ وَعَلِيهِ: پہلی مرتبہ سیراب کرنا۔

خَحَّمُ: اچھی طرح ختم کرنا۔ خَحَّمَةُ: انگوٹھی پہنانا۔

خَحَّمُ: خاتمہ پر پہننا۔ تَخَحَّمُ: الخاتمہ بہ: انگوٹھی پہننا۔ کہا جاتا ہے "تَخَحَّمُ بِالْعَقِيْقِي" اس نے عقیق کی انگوٹھی پہنی۔

بَاهِرُهُ: چھپانا۔ عَنَهُ: غفلت برتنا اور چپ رہنا۔ عَمَامُهُ بَانْدَهْتَا: کہا جاتا ہے "تَخَحَّمُ بِعَمَامَتِهِ" اس نے اپنا عمامہ باندھا۔

إِخْتَمَمَهُ: پورا کرنا۔ الْخَحْمُ: مہر۔ شہد۔ الْخَحَاتِمُ: انگوٹھی۔ مہر۔ جِ خَوَاتِمِهِمُ: الخاتمہ والخاتمات جِ خَوَاتِمِهِمُ: انگوٹھی۔ مہر۔ انجم۔ گدی کا گڑھا۔ ناگلوں کی تھوڑی سی سفیدی۔

الْخَحَاتِمَةُ: الخاتمہ. الْخَحَاتِمُ: الخاتمات جِ خَوَاتِمِهِمُ: انگوٹھی۔ مہر۔ انجم۔ گدی کا گڑھا۔ ناگلوں کی تھوڑی سی سفیدی۔

تَخَحَّمُ: الخاتمہ والخاتمات جِ خَوَاتِمِهِمُ: انگوٹھی۔ مہر۔ انجم۔ گدی کا گڑھا۔ ناگلوں کی تھوڑی سی سفیدی۔

تَخَحَّمُ: الخاتمہ والخاتمات جِ خَوَاتِمِهِمُ: انگوٹھی۔ مہر۔ انجم۔ گدی کا گڑھا۔ ناگلوں کی تھوڑی سی سفیدی۔

تَخَحَّمُ: الخاتمہ والخاتمات جِ خَوَاتِمِهِمُ: انگوٹھی۔ مہر۔ انجم۔ گدی کا گڑھا۔ ناگلوں کی تھوڑی سی سفیدی۔

تَخَحَّمُ: الخاتمہ والخاتمات جِ خَوَاتِمِهِمُ: انگوٹھی۔ مہر۔ انجم۔ گدی کا گڑھا۔ ناگلوں کی تھوڑی سی سفیدی۔

تَخَحَّمُ: الخاتمہ والخاتمات جِ خَوَاتِمِهِمُ: انگوٹھی۔ مہر۔ انجم۔ گدی کا گڑھا۔ ناگلوں کی تھوڑی سی سفیدی۔

تَخَحَّمُ: الخاتمہ والخاتمات جِ خَوَاتِمِهِمُ: انگوٹھی۔ مہر۔ انجم۔ گدی کا گڑھا۔ ناگلوں کی تھوڑی سی سفیدی۔

تَخَحَّمُ: الخاتمہ والخاتمات جِ خَوَاتِمِهِمُ: انگوٹھی۔ مہر۔ انجم۔ گدی کا گڑھا۔ ناگلوں کی تھوڑی سی سفیدی۔

تَخَحَّمُ: الخاتمہ والخاتمات جِ خَوَاتِمِهِمُ: انگوٹھی۔ مہر۔ انجم۔ گدی کا گڑھا۔ ناگلوں کی تھوڑی سی سفیدی۔

تَخَحَّمُ: الخاتمہ والخاتمات جِ خَوَاتِمِهِمُ: انگوٹھی۔ مہر۔ انجم۔ گدی کا گڑھا۔ ناگلوں کی تھوڑی سی سفیدی۔

مِيس تَهْوِزِي سَفِيْدِي هُو۔

خَحْنُ (ن ض) خَحَّنَا. الشُّيْ: کاٹنا۔

.....الصَّبِي: خفتہ کرنا۔ صفت مفعولی۔ (خَحِيصٌ وَخَحُونٌ) عَمَامٌ مَخْحُونٌ: خشک سال۔ وَخَحْنُ الرَّجُلُ: فریب دینا۔

خَحْنَةُ (ن) خَحُّونًا وَخَحُّونَةً وَخَحْنَتُهُ: داماد بننا۔ خَاتِنُ الرَّجُلِ: فریب دینا۔

إِخْتَحَنَ: الصَّبِي: ختم شدہ ہونا۔

الْبِخْتَانُ وَالْبِخْتَانَةُ: ختمہ۔ البختانة: ختمہ کرنے کا پیشہ۔

الْبِخْتَانُ: عورت کی طرف سے رشتہ جیسے سر سارہ داماد۔ جِ أَخْتَانًا.

الْبِخْتَانَةُ: الختنہ. الْخَتْنُ: کامونٹ۔ ساس۔

الْبِخْتَانُونَ: بَنِيْمٌ۔ مَعَزَرُ عَمْرَتِ كَالْقَلْبِ۔ جِ خَوَاتِمِهِمُ: (کلمہ عجیب ہے)

خَحَّأَ يَخْحُو خَحَّوَا: عَمٌ بِإِيمَارِي سَ عَشْتَه دَوْل هُوْنَا۔ خَحَّأَ: روکنا۔

إِخْتَبَى: المتاع: ایک ایک کر کے بیچنا۔

إِخْتَحَى: إِيْتَسَاءُ: مَرَضٌ يَأْتِي كِي وَجَدَ سَ عَشْتَه دَوْل هُوْنَا۔

خَحَّأَ. الشُّيْ: جمع کرنا اور درست کرنا۔

إِخْحَأَ: شرم کرنا۔

الْخَحُّ: سِلَابٌ كَالْوَدَا كَرْتٌ۔ يَأْخُجُّ شَدَه كَائِي۔

الْخَحَّةُ وَالْخَحَّةُ: آگ سلگانے کے لئے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا مٹھا۔

خَحَّرَ (ن) خَحَّرَا وَخَحُّورًا وَخَحَّارًا وَخَحَّرَ (س) خَحَّوَا وَخَحَّرَ (ك) وَخَحَّوَا اللَّيْنُ: گاڑھا ہونا۔ وہی بننا۔ صفت (خَحَّارٌ)

خَحَّرَتِ (ض) خَحَّوَا. نَفْسُ الرَّجُلِ: جی متلا۔ مضطرب ہونا۔ کہا جاتا ہے "إِسْتَيْقَظَ فُلَانٌ خَائِرَ النَّفْسِ" فلاں شخص بیدار ہوا اس حال میں کہ وہ سست تھا۔

خَحَّرَ (س) خَحَّوَا: شرم کرنا۔

خَحَّرَ وَأَخَحَّرَ. اللَّيْنُ: گاڑھا کرنا۔

أَخَحَّرَ السَّرِيْدَ: بَمَكْنِ كَوَالْبَغِيْرِ كَجَلَا عَ هُوَا جَچھوڑ دینا اور امثلہ عرب میں سے ہے

جَچھوڑ دینا اور امثلہ عرب میں سے ہے

مِنْ الْخَحِيْلِ: جَچھوڑا جس کی ناگلوں

<p>المُخَدَّبُ: دونوں کچیاں۔ خَدَّبَ (ن) خَدَّبًا: جھوٹ بولنا۔۔۔۔۔ بِالسَّيْفِ: تلوار سے مارنا۔ هِ النَّيَّةُ: ڈسنا۔ تَخَدَّبَ: درمیانی چال چلنا۔ السَّخَدَبُ: لمبائی۔ کہا جاتا ہے "فِي لِسَانِهِ خَدَّبٌ" اس کی زبان میں اوچھا پن اور حماقت ہے۔ السَّخَدَبُ وَالْإِخْدَبُ: بے وقوف۔ لمبا۔ جلد باز۔ سَيْفٌ خَدَّبٌ: تلوار قاطع۔ طَعْنَةٌ أَوْ حَرْبَةٌ خَدْبِيَّةٌ وَخَدْبَاءٌ: سخت یا کشادہ زخم والی نیزہ کی مار۔ الْمُخَدَّبَةُ: لمبائی۔ الْمُخَدَّبُ: بڑا جھوٹا۔ دِزُوعٌ (خَدْبَاءُ) کشادہ زرہ۔ الخَدْبَاءُ: ہر وہ جانور جو کھٹکا ہو۔ خَدَجَتْ (ن ض) خَدَجًا وَخَدَجَتْ الدَّابَّةَ: نا تمام پچر گرا دینا۔ صفت (خَدَجٌ وَمُخَدَجٌ): صفت مقبولی خَدْبِيَّةٌ وَخَدْوُجٌ وَمُخَدَجٌ) اور خَدْوُجٌ: کی جمع خَدْوُجٌ وِخْدَاجٌ وَخَدْبِجٌ. أَخْدَجَ الشَّيْءُ: گھٹنا صَلَوَتُهُ: نماز میں کچھ کی کر دینا۔ خَدَجَتِ النَّاقَةَ: نا تمام پچر کرنا۔ الِخْدَاجُ: نقصان۔ خَدِيرٌ (س) خَدِيرًا. العَضْوُ: سُنُّ ہونا..... العَيْنُ: خارش یا تڑکا پڑ جانے کی وجہ سے آنکھ کا بھاری ہونا..... السَّخْرُ أَوِ البَرْدُ: سخت ہونا النَّهَارُ: ہوا بند اور تیز گرمی ہونا۔ خَدَّرَ (ن) خَدَّرًا: تھمیر ہونا..... الطَّبِيُّ: ریوڑ سے پیچھے رہ جانا..... الاَسْدُ فِي عَرِينِهِ: ماند میں رہنا..... بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا..... وَخَدَّرَ وَخَدَّرَ: النَّبْتُ: پردہ میں رکھنا خَدَّرَ وَخَدَّرَ: العَضْوُ: سُنُّ و بے حس کر دینا۔ أَخَدَّرَ بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا..... مع اہلہ: اپنے لوگوں کے ساتھ حقیقاً م کرنا الاَسْمُ: بھاری میں رہنا..... الاسد عربیہ: کچھار کا شیر کو چھپا لینا۔ تَخَدَّرَ وَاخْتَدَّرَ: پھینچنا۔</p>	<p>أَخْجَاهُ: سوال میں اصرار کرنا۔ تَخَجَّأً: دیر لگانا۔ الْمُخْجَاةُ: موٹا دست بے وقوف۔ العَجْجُفُ وَالْعَجْجِيفُ: اوچھا پن۔ خَجَلٌ (س) خَجَلًا: شرم سے سرگشتہ و بے خود ہونا۔ صفت (خَجَلٌ وَخَجَلَانٌ)..... السُّوْبُ: کپڑے کے ٹیچے کا حصہ پھٹنا اور کشادہ ہونا۔ النَّبَاتُ: بہت اور گنجان ہونا۔ صفت (خَجَلٌ)..... البَعِيرُ بِالْحَمَلِ: بوجھل ہونا بامِرَّةٌ: مشتہر ہونا..... مِنْ كَذَا: زنج ہونا فِي طَلَبِ الرِّزْقِ:..... ست ہونا۔ خَجَلُهُ وَأَخْجَلَهُ: شرمندہ کرنا۔ وَأَخْجَلُ النَّبَاتُ: لمبا اور گنجان ہونا۔ الْمُخْجَلُ: مہس۔ شرم۔ خَجِي (ض) خَجِيًا. الصَّرَابُ: پر خجلہ: پاؤں سے خاک اڑانا۔ خَجِي (س) خَجًا: شرم کرنا۔ خَدَّ (ن) خَدًّا. فِيهِ الضَّرْبُ: بدھی پڑنا الارضُ: کھودنا۔ خَدَّةٌ تَخْدِيذًا. لِحْمُهُ: ڈبلا ہو کر جھری پڑنا لِحْمُهُ: دبلا کرنا۔ خَادَّةٌ مُخَادَّةٌ: کام میں مزاحم ہونا۔ تَخَادًا: ایک دوسرے کی مزاحمت کرنا۔ تَخَدَّدَ: لِحْمُهُ: لاغری سے جھری دار ہونا القَوْمُ: فرقتے فرقتے ہونا۔ السَّخْدُ: چھوٹی ندی۔ طَرِيقَةٌ: لمبا گڑھا۔ لوگوں کی جماعت۔ رَجْ أَسْبَدَةٌ وَخَدَادٌ وَخَدَانٌ. الخَدُّ مِنَ الوَجْهِ: رخسارہ۔ رَجْ خَدْوُدٌ. الخَدَّةُ: لمبا گڑھا۔ رَجْ خَدْدٌ. الْأَخْدُوْدُ: لمبا گڑھا۔ رَجْ أَخْدَائِدٌ. الْأَخْدَائِدُ: کوڑے کے مارنے کے نشانات اور اسی سے ہے أَخْدَائِدُ الأَرْضِيَّةِ فِي البَيْتِ: کنویں میں رستی کھینچنے کے نشانات۔ الْمِخْدَةُ: چھوٹا تکیہ جس پر سوتے ہوئے رخصارہ رکھتے ہیں۔ سر بانہ۔ بل کا پھار۔</p>	<p>"مایدیری ایخیرام یذیب" اس شخص کے حق میں بولتے ہیں جو متردود و تھمیر ہو۔ الخائِزَةُ: جماعت۔ المُخْتَارُ: دستِ خوان کا باقی ماندہ۔ المُخْتَاةُ: چیز کا باقی ماندہ حصہ۔ دودھ کا گاڑھا گاڑھا حصہ جو باقی رہ جائے۔ کہا جاتا ہے "ذَهَبَ صَفْوَةُ وَبَقِيَ خَيْزَاتُهُ" اس کا خالص حصہ ختم ہو گیا اور تھمت باقی رہ گیا۔ تَخْتَمُ: خون سے آلودہ ہونا۔ الخَنْعَمُ وَالْمُخْتَنَمُ: شیر۔ الخَنْعَمَةُ: جانور کو زنج کرنا اور اکٹھے ہو کر کھانا پھر اسی جانور کے خون میں خوشبو ملا کر ہاتھ ڈال کر آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا معاہدہ کرنا۔ الخَنْلَةُ وَالْمُخْنَلَةُ: مِنَ البَطْنِ: پیڑ و۔ کہا جاتا ہے "طَعْنَهُ فِي خَنْلَةِ بَطْنِهِ" اس نے اس کے پیڑ پر نیزہ مارا۔ رَجْ خَنْلَاتٌ وَخَنْلَاتُ. المُخْنَلَةُ: موٹی عورت۔ خَيْمٌ (س) خَيْمًا: موٹی یا چوڑی ناک والا ہونا۔ صفت (خَيْمٌ وَأَخْيَمٌ) خَيْمٌ أَخْلَافُ النَّاقَةِ: اونٹنی کے تھن کا بند ہونا۔ خَيْمٌ (ن) خَيْمًا: آنکھ کیل دینا۔ خَيْمٌ الشَّيْءُ: چوڑا کرنا۔ الخَيْمَةُ: ناک کی چوڑائی یا موٹائی۔ خَيْنٌ (ض) خَيْنًا. البَقْرُ: گوبر کرنا۔ خَيْجُهُ (ن) خَيْجًا: ہٹانا۔ دُفِعَ كَرْنَا..... العَطْبُ: پھاڑنا۔ چیرنا۔ بوجھلہ: پاؤں سے خاک اڑانا..... بِسَلْحِهِ: پانچا خانہ کرنا۔ سَاعِدُهُ: گھما ہوا ہونا..... المَرَأَةُ: جماع کرنا۔ أَخْتَجَّ: الجَمَلُ: بیچ کھاتے ہوئے تیز دوڑنا۔ رِيعٌ (خَيْجُوجٌ) تیز ہوا۔ خَيْجًا (ف) خَيْجًا. الرَّجُلُ: چھپ کے گھر میں داخل ہونا..... اللَّيْلُ: ہ مارنا۔ المَرَأَةُ: جماع کرنا۔ خَجِي (س) خَجًا: شرم کرنا۔ بے ہودہ بکنا۔</p>
---	---	--

12

الخادِر: ست کاٹل۔ حیران۔

الخَیْضَرُ: پردہ جولڑکی کے لئے مکان کے گوشہ میں لگا دیا جائے۔ لڑکی کے لئے مکان کا مخصوص حصہ۔ شیر کی جھاڑی۔ رات کی تاریکی۔ جھانڈار۔ خندوز۔ جیح آخادیر۔

الخَیْضَرُ: عضو کی بے حس۔ کالی ہستی۔ تاریکی۔ اندھیری جگہ۔

الخَیْضَرُ: بے حس عضو والا۔ لیسل خلیز: تاریک رات۔ مکان خلیز: پوشیدہ اندھیری جگہ۔ نہاڑ خلیز: نمناک دن۔

الخِضَارُ: شیر کی جھاڑی۔

الخِضْرَةُ: سخت تاریکی۔

الْأَخْضَرُ وَالْأَخْضَارِيُّ: تاریک رات

الْخُدَارِيُّ: کالا بادل۔

الْخُدَارِيَّةُ: عقاب۔

الْأَخْضَرُ وَالْخُدْرِيُّ وَالْأَخْضَرِيُّ: ایک قسم کا جنگلی گدھا۔

هَوْذَجُ (مخدوڑ) پردہ پڑا ہوا ہودہ۔

الخُدْرَانِيُّ: بکری۔

الخُدْرَانِيُّ: بکری اور بقول بعض بڑی بکری۔ رخ خندان۔

خَدَشُهُ (ض) خَدَشًا وَخَدَشَهُ: خراش لگانا۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ عیب لگانا۔

الخَدَشُ: مص۔ خراش۔ رخ خدوش و خدش و خدش۔

الخَدُوشُ: بہت خراش لگانے والا۔ پسو۔ کبھی۔

المُخَادِشُ وَالْمُخَدَشُ: بلی۔

المُخَدَشُ: انسان کی گردن میں کٹنے کی جگہ۔

خَدَعَهُ (ف) خَدَعًا وَخَدَعًا: دھوکا دینا۔ فریب دینا۔ الضَّبُّ فِي حُجْرِهِ: داخل ہونا۔ المطَرُ: کم ہونا۔ الرَّجُلُ: کم مال

والا ہونا۔ داود و ہش سے رکنا۔ السوق: بازار کا ماند پڑنا۔ راجح ہونا (شد)۔

الأمورُ: مختلف ہو جانا۔ الشمسُ: غائب ہونا۔ الطريقُ: غیر معلوم ہونا۔

..... الشُّيُ: خراب ہونا۔ الثوبُ: موٹنا۔

..... الرجلُ: اذخ رگ کاٹ دینا۔ أَخَذَعَهُ: دوغایازی پر اکسانا۔ الشُّيُ: چھپانا پوشیدہ کرنا۔

خَادَعَهُ مُخَادَعَةً وَخَدَاعًا وَاخْتَدَعَهُ وَتَخَدَعَهُ: دھوکا دینا۔ خَادَعُ الْعَيْنِ: دیکھی ہوئی چیز میں شک ڈالنا۔ تَخَدَعُ لَهُ: تکلف مدد کرنا۔

تَخَدَعُ: فریب خوردہ ظاہر کرنا۔ القومُ: ایک دوسرے کو فریب دینا۔

إِنْخَدَعُ: فریب خوردہ ہونا۔ دھوکے پر راضی ہونا۔ بہ: دھوکا کھا جانا۔ السوقُ: بازار کا ماند پڑ جانا۔

الخُدَيْعَةُ: رخ خدائع و الخُدَعَةُ وَالْخِدَاعُ: فریب۔ دھوکا۔ مکر و حیلہ۔

الخُدَيْعَةُ: لوگوں کو دھوکا دینے والا۔ الخُدَعَةُ وَالْخِدَاعُ وَالْخَيْدَعُ: بہت دھوکا دینے والا۔ سَنَةُ خُدَاعَةٍ: کم پیداوار والا

سال۔ الخَادِعُ: فاعل۔ طریق خادِع: راستہ جو کبھی ظاہر ہو اور کبھی پوشیدہ ہو جائے۔ دیسار خادِع: کھوتا دینا۔

الخَادِعَةُ: موٹ۔ بڑے دروازہ میں چھوٹا دروازہ۔ مکان کے اندر کوٹھری۔

الْإِخْدَاعُ: اسم تفضیل۔ الْإِخْدَاعَانُ: گردن کی دونوں پہلوؤں پر دو پوشیدہ رگوں کا نام اور کہا جاتا ہے "الْفَيْسَمُنُ الْإِخْدَاعِيكَ" میں

تمہارے تکبر کو دور کر دوں گا۔ "فَلَإِنْ شَدِيدُ الْإِخْدَاعِ" فلاں بڑا گردن کش ہے۔

رخ آخادِع۔ الخَيْدَعُ: وہ شخص جس کی دوستی پر بھروسہ نہ کیا جائے۔ راستہ جو مقصد کے مخالف ہو۔ چمکتی ہوئی ریت۔ فریب دینے والا۔ بھیرا۔

الخُدُوعُ: بہت فریب دینے والا۔ طَرِيقُ خُدُوعٍ: راستہ جو کبھی ظاہر اور کبھی پوشیدہ ہو جائے۔ رخ خَدَعُ۔

الْمُخَدَعُ وَالْمُخَدَعَةُ: کوٹھری

جو بڑے کرنے کے اندر ہو۔ رخ مخادِع۔ الخَدْعُونَةُ: کدو کا ٹکڑا۔ خَدَفُ (ض) خَدَفًا: تیز چلنا۔ خَدَفَتِ السَّمَاءُ بِالرَّاحِ: برف گرنا۔ (.....) وَاخْتَدَفَ الشُّيُ: اُچک لینا۔ الخَدَفُ: مص۔ کشتی کا پتوار۔ خَدِثْتُ (س) خَدَلًا وَخَدَلًا: تَوَخَدُونَ: الساقُ: بڑگوشت ہونا۔ سَاقُ خَدَلَةٍ: بڑگوشت چڈلی۔ خَدَمَهُ (ض) خَدَمَةً وَخَدَمَةً: خدمت کرنا۔ مَفْتُوحُ خُدَامٍ وَخُدَمٌ: مَوْنَتُ خَادِمٍ وَخَادِمَةٌ: خادِمَةٌ: خادم دینا۔ خَدَمَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ: پازیب پہنانا۔ تَخَدَمُهُ: خدمت لینا۔ خادم بنانا۔ إِخْتَدَمَ: اپنی خدمت کرنا۔ خادم مانگنا۔ خادم بنانا۔ اسْتَخْدَمَهُ: خادم بنانا۔ الرجلُ: خادم مانگنا۔ الخَدَمَةُ: وقت خواہ دن کا ہو یا رات کا۔ الخَدَمَةُ: پازیب۔ پنڈلی۔ لوگوں کا حلقہ۔ کہا جاتا ہے "فَقَضَّ اللَّهُ خَدَمَتَهُمْ" اللہ ان کی جماعت کو متفرق کر دے۔ (.....) وَالْخَدَمَةُ: حلقہ کی مانند مضبوط چیزے کا موٹا تسمہ جس کو اونٹ کے گلے پر باندھا جاتا ہے۔ رخ خَدَمٌ وَخِدَامٌ وَخَدَمَاتُ۔ الخَادِمِيَّةُ: نوکری۔ الْمُخْدَوِمِيَّةُ: آقائی۔ الخَدَامُ: نوکر۔ الخَدِيمُ: نوکر۔ غلام۔ الْإِخْدَامُ: گھوڑا جس کے پیر کی سفیدی کم ہو کر کھر کے کچھ اوپر گول سا ہو۔ مَوْنَتُ خُدَمَاءِ: الخدماء: بکری جس کی ایک ٹانگ سفید اور باقی سیاہ ہوں۔ السُّخْدُومُ: مَفْعٌ - آقا۔ مولیٰ۔ حَسَابُ

جو بڑے کرنے کے اندر ہو۔ رخ مخادِع۔

المُخَدَعُ: تجربہ کار جو بار بار دھوکا کھا چکا ہو۔

الخَدْعُونَةُ: کدو کا ٹکڑا۔

خَدَفُ (ض) خَدَفًا: تیز چلنا۔

خَدَفَتِ السَّمَاءُ بِالرَّاحِ: برف گرنا۔ (.....) وَاخْتَدَفَ الشُّيُ: اُچک لینا۔

الخَدَفُ: مص۔ کشتی کا پتوار۔

خَدِثْتُ (س) خَدَلًا وَخَدَلًا: تَوَخَدُونَ: الساقُ: بڑگوشت ہونا۔

سَاقُ خَدَلَةٍ: بڑگوشت چڈلی۔

خَدَمَهُ (ض) خَدَمَةً وَخَدَمَةً: خدمت کرنا۔ مَفْتُوحُ خُدَامٍ وَخُدَمٌ: مَوْنَتُ خَادِمٍ وَخَادِمَةٌ: خادِمَةٌ: خادم دینا۔

خَدَمَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ: پازیب پہنانا۔

تَخَدَمُهُ: خدمت لینا۔ خادم بنانا۔

إِخْتَدَمَ: اپنی خدمت کرنا۔ خادم مانگنا۔ خادم بنانا۔

اسْتَخْدَمَهُ: خادم بنانا۔ الرجلُ: خادم مانگنا۔

الخَدَمَةُ: وقت خواہ دن کا ہو یا رات کا۔

الخَدَمَةُ: پازیب۔ پنڈلی۔ لوگوں کا حلقہ۔ کہا جاتا ہے "فَقَضَّ اللَّهُ خَدَمَتَهُمْ" اللہ ان کی جماعت کو متفرق کر دے۔

(.....) وَالْخَدَمَةُ: حلقہ کی مانند مضبوط چیزے کا موٹا تسمہ جس کو اونٹ کے گلے پر باندھا جاتا ہے۔ رخ خَدَمٌ وَخِدَامٌ وَخَدَمَاتُ۔

الخَادِمِيَّةُ: نوکری۔

الْمُخْدَوِمِيَّةُ: آقائی۔

الخَدَامُ: نوکر۔

الخَدِيمُ: نوکر۔ غلام۔

الْإِخْدَامُ: گھوڑا جس کے پیر کی سفیدی کم ہو کر کھر کے کچھ اوپر گول سا ہو۔ مَوْنَتُ خُدَمَاءِ: الخدماء: بکری جس کی ایک ٹانگ سفید اور باقی سیاہ ہوں۔ السُّخْدُومُ: مَفْعٌ - آقا۔ مولیٰ۔ حَسَابُ

جو بڑے کرنے کے اندر ہو۔ رخ مخادِع۔

المُخَدَعُ: تجربہ کار جو بار بار دھوکا کھا چکا ہو۔

الخَدْعُونَةُ: کدو کا ٹکڑا۔

خَدَفُ (ض) خَدَفًا: تیز چلنا۔

خَدَفَتِ السَّمَاءُ بِالرَّاحِ: برف گرنا۔ (.....) وَاخْتَدَفَ الشُّيُ: اُچک لینا۔ الخَدَفُ: مص۔ کشتی کا پتوار۔ خَدِثْتُ (س) خَدَلًا وَخَدَلًا: تَوَخَدُونَ: الساقُ: بڑگوشت ہونا۔ سَاقُ خَدَلَةٍ: بڑگوشت چڈلی۔ خَدَمَهُ (ض) خَدَمَةً وَخَدَمَةً: خدمت کرنا۔ مَفْتُوحُ خُدَامٍ وَخُدَمٌ: مَوْنَتُ خَادِمٍ وَخَادِمَةٌ: خادِمَةٌ: خادم دینا۔ خَدَمَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ: پازیب پہنانا۔ تَخَدَمُهُ: خدمت لینا۔ خادم بنانا۔ إِخْتَدَمَ: اپنی خدمت کرنا۔ خادم مانگنا۔ خادم بنانا۔ اسْتَخْدَمَهُ: خادم بنانا۔ الرجلُ: خادم مانگنا۔ الخَدَمَةُ: وقت خواہ دن کا ہو یا رات کا۔ الخَدَمَةُ: پازیب۔ پنڈلی۔ لوگوں کا حلقہ۔ کہا جاتا ہے "فَقَضَّ اللَّهُ خَدَمَتَهُمْ" اللہ ان کی جماعت کو متفرق کر دے۔ (.....) وَالْخَدَمَةُ: حلقہ کی مانند مضبوط چیزے کا موٹا تسمہ جس کو اونٹ کے گلے پر باندھا جاتا ہے۔ رخ خَدَمٌ وَخِدَامٌ وَخَدَمَاتُ۔ الخَادِمِيَّةُ: نوکری۔ الْمُخْدَوِمِيَّةُ: آقائی۔ الخَدَامُ: نوکر۔ الخَدِيمُ: نوکر۔ غلام۔ الْإِخْدَامُ: گھوڑا جس کے پیر کی سفیدی کم ہو کر کھر کے کچھ اوپر گول سا ہو۔ مَوْنَتُ خُدَمَاءِ: الخدماء: بکری جس کی ایک ٹانگ سفید اور باقی سیاہ ہوں۔ السُّخْدُومُ: مَفْعٌ - آقا۔ مولیٰ۔ حَسَابُ

<p>السَّخْرِيَّةُ: ناسفة مولى - سج خسراند و خرد و خرد.</p>	<p>خَسَارِجَاتٌ وَخَوَارِجٌ: الخَوَارِجُ: باغی لوگ - جماعت سے نکلے ہوئے لوگ -</p>	<p>..... العمل: ایک دوسرے کے مخالف مختلف قسم کے کر دینا۔ الغلام اللوح: کچھ لکھنا اور کچھ چھوڑ دینا..... الواعية المرتع: کچھ چرنا کچھ چھوڑ دینا۔</p>
<p>الخُرْدَةُ: معمولی اسباب تجارت -</p>	<p>السَّخْرَجِيَّةُ: بیرونی۔ وہ شخص جو بذات خود سرداری حاصل کرے بغیر اس کے کہ پہلے سے اس کے خاندان میں سرداری ہو یا ایسا شخص جو دلیر اور باپ اس کا بزدل ہو اور اسی طرح اس گھوڑے کو بھی کہا جاتا ہے جو سابق ہو جائے اور اس کے ماں باپ ایسے نہ ہوں۔ بادشاہ کا باغی - جماعت کا مخالف -</p>	<p>أَخْرَجَ: الشَّيْءُ: نکالنا..... الرجل: خراج ادا کرنا..... السَّراعيَةُ المَرْتَعُ: کچھ چرنا کچھ چھوڑ دینا۔</p>
<p>خُرْدَقُ: العمل: بگاڑنا۔ کلمہ عامیہ ہے۔ فصیح خورق ہے۔</p>	<p>السَّخْرَجِيَّةُ الخَارِجِيَّةُ: کامونٹ۔ وہ منصب جس کے تعلقات دوسری حکومتوں سے ہوں۔</p>	<p>خَسَارِجُ: السَّيْذُ عَيْدُهُ: ہر مہینہ رقم معین کی ادائیگی کا معاملہ کرنا۔</p>
<p>خُرْدَلُ: الطعام: اچھا حصہ کھانا..... اللحم: چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کا ٹٹا۔</p>	<p>السَّخْرَجِيَّةُ الخَارِجِيَّةُ: کامونٹ۔ وہ منصب جس کے تعلقات دوسری حکومتوں سے ہوں۔</p>	<p>تَخَارِجُ: الشَّرْكَاءُ: آپس میں تقسیم کرنا۔ تَخْرُجُ: الوَلَدُ لِي الأَدَبِ: تربیت یافتہ ہونا۔ صفت مُنْخَرَجُ: تَرْبِيَةُ يَأْتِيهِ إِخْتِصَارُ: الشَّيْءُ: نکالنا۔ استنباط کرنا۔ ایجاد کرنا..... فَلَانًا: نکلنے کو کہنا۔</p>
<p>الخُرَادِلُ: گوشت کے ٹکڑے۔</p>	<p>السَّخْرَجِيَّةُ الخَارِجِيَّةُ: کامونٹ۔ وہ منصب جس کے تعلقات دوسری حکومتوں سے ہوں۔</p>	<p>إِخْتِصَارُ: الشَّيْءُ: نکالنا۔ استنباط کرنا۔ ایجاد کرنا..... فَلَانًا: نکلنے کو کہنا۔</p>
<p>لَحْمٌ (خَسْرَادِيْلٌ) نکلے نکلے کیا ہوا گوشت۔ الخُرْدَلُ: رائی۔ واحد (خردلة)</p>	<p>السَّخْرَجِيَّةُ الخَارِجِيَّةُ: کامونٹ۔ وہ منصب جس کے تعلقات دوسری حکومتوں سے ہوں۔</p>	<p>إِخْتِصَارُ: الشَّيْءُ: نکالنا۔ استنباط کرنا۔ ایجاد کرنا..... فَلَانًا: نکلنے کو کہنا۔</p>
<p>خُرْزُ (ن ض) خُرْزًا: الجِلْدُ: ستالی سے بنا۔</p>	<p>السَّخْرَجِيَّةُ الخَارِجِيَّةُ: کامونٹ۔ وہ منصب جس کے تعلقات دوسری حکومتوں سے ہوں۔</p>	<p>إِخْتِصَارُ: الشَّيْءُ: نکالنا۔ استنباط کرنا۔ ایجاد کرنا..... فَلَانًا: نکلنے کو کہنا۔</p>
<p>خُرْزُ (س) خُرْزًا: کمزوری کے بعد مضبوط کرنا۔</p>	<p>السَّخْرَجِيَّةُ الخَارِجِيَّةُ: کامونٹ۔ وہ منصب جس کے تعلقات دوسری حکومتوں سے ہوں۔</p>	<p>إِخْتِصَارُ: الشَّيْءُ: نکالنا۔ استنباط کرنا۔ ایجاد کرنا..... فَلَانًا: نکلنے کو کہنا۔</p>
<p>السَّخْرُزُ: پوتھ جس کو لڑی میں پرولیا جائے۔ شیشہ کے چمڈے ہوئے دانے پتھر کے نگ واحد (خسرزبة) خُرْزَةُ الظُّهْرِ: ریڑھ کی ہڈی کے منگے۔ خسرزات الملک: شاہی تاج کے جواہر۔</p>	<p>السَّخْرَجِيَّةُ الخَارِجِيَّةُ: کامونٹ۔ وہ منصب جس کے تعلقات دوسری حکومتوں سے ہوں۔</p>	<p>إِخْتِصَارُ: الشَّيْءُ: نکالنا۔ استنباط کرنا۔ ایجاد کرنا..... فَلَانًا: نکلنے کو کہنا۔</p>
<p>السَّخْرُزَةُ: سوراخ اور اس کا دھاگا۔ ج۔ خُرْزُ.</p>	<p>السَّخْرَجِيَّةُ الخَارِجِيَّةُ: کامونٹ۔ وہ منصب جس کے تعلقات دوسری حکومتوں سے ہوں۔</p>	<p>إِخْتِصَارُ: الشَّيْءُ: نکالنا۔ استنباط کرنا۔ ایجاد کرنا..... فَلَانًا: نکلنے کو کہنا۔</p>
<p>الخِرَازَةُ: موچی کا پیشہ۔</p>	<p>السَّخْرَجِيَّةُ الخَارِجِيَّةُ: کامونٹ۔ وہ منصب جس کے تعلقات دوسری حکومتوں سے ہوں۔</p>	<p>إِخْتِصَارُ: الشَّيْءُ: نکالنا۔ استنباط کرنا۔ ایجاد کرنا..... فَلَانًا: نکلنے کو کہنا۔</p>
<p>الخِرَازُ: موچی۔</p>	<p>السَّخْرَجِيَّةُ الخَارِجِيَّةُ: کامونٹ۔ وہ منصب جس کے تعلقات دوسری حکومتوں سے ہوں۔</p>	<p>إِخْتِصَارُ: الشَّيْءُ: نکالنا۔ استنباط کرنا۔ ایجاد کرنا..... فَلَانًا: نکلنے کو کہنا۔</p>
<p>طائر (مُخْرَزٌ) پرندہ جس کے بازوؤں پر نکلے ہوں۔</p>	<p>السَّخْرَجِيَّةُ الخَارِجِيَّةُ: کامونٹ۔ وہ منصب جس کے تعلقات دوسری حکومتوں سے ہوں۔</p>	<p>إِخْتِصَارُ: الشَّيْءُ: نکالنا۔ استنباط کرنا۔ ایجاد کرنا..... فَلَانًا: نکلنے کو کہنا۔</p>
<p>المُخْرَزُ: ستالی۔ ج۔ مَخَارِزُ.</p>	<p>السَّخْرَجِيَّةُ الخَارِجِيَّةُ: کامونٹ۔ وہ منصب جس کے تعلقات دوسری حکومتوں سے ہوں۔</p>	<p>إِخْتِصَارُ: الشَّيْءُ: نکالنا۔ استنباط کرنا۔ ایجاد کرنا..... فَلَانًا: نکلنے کو کہنا۔</p>
<p>خُرْسُ (س) خُرْسًا: گونگا ہونا۔ خُرْسًا: منگے سے پینا۔</p>	<p>السَّخْرَجِيَّةُ الخَارِجِيَّةُ: کامونٹ۔ وہ منصب جس کے تعلقات دوسری حکومتوں سے ہوں۔</p>	<p>إِخْتِصَارُ: الشَّيْءُ: نکالنا۔ استنباط کرنا۔ ایجاد کرنا..... فَلَانًا: نکلنے کو کہنا۔</p>
<p>أَخْرَسَهُ اللّهُ: گونگا کرنا۔ أَخْرَسَتِ الأَرْضُ: واستخرست: ناقابل زراعت ہونا۔</p>	<p>السَّخْرَجِيَّةُ الخَارِجِيَّةُ: کامونٹ۔ وہ منصب جس کے تعلقات دوسری حکومتوں سے ہوں۔</p>	<p>إِخْتِصَارُ: الشَّيْءُ: نکالنا۔ استنباط کرنا۔ ایجاد کرنا..... فَلَانًا: نکلنے کو کہنا۔</p>
<p>خُرْسَمٌ: علسی النفساء: زچ کو اس کی خوراک کھلانا۔</p>	<p>السَّخْرَجِيَّةُ الخَارِجِيَّةُ: کامونٹ۔ وہ منصب جس کے تعلقات دوسری حکومتوں سے ہوں۔</p>	<p>إِخْتِصَارُ: الشَّيْءُ: نکالنا۔ استنباط کرنا۔ ایجاد کرنا..... فَلَانًا: نکلنے کو کہنا۔</p>
<p>تَخَارَسٌ: گونگا بنا۔</p>	<p>السَّخْرَجِيَّةُ الخَارِجِيَّةُ: کامونٹ۔ وہ منصب جس کے تعلقات دوسری حکومتوں سے ہوں۔</p>	<p>إِخْتِصَارُ: الشَّيْءُ: نکالنا۔ استنباط کرنا۔ ایجاد کرنا..... فَلَانًا: نکلنے کو کہنا۔</p>
<p>تَخْرَسَتِ: النفساء: زچ کو اپنے لئے کھانا</p>	<p>السَّخْرَجِيَّةُ الخَارِجِيَّةُ: کامونٹ۔ وہ منصب جس کے تعلقات دوسری حکومتوں سے ہوں۔</p>	<p>إِخْتِصَارُ: الشَّيْءُ: نکالنا۔ استنباط کرنا۔ ایجاد کرنا..... فَلَانًا: نکلنے کو کہنا۔</p>

تیار کرنا اور اسی سے مثل ہے "نخروسی یا نفس لامخروسة لکب" یعنی تو اپنا کام خود ہی کر کوئی اور کرنے والا نہیں۔
 المخروس والمخروس: بچہ کی پیدائش کا کھانا۔
 الخروسة والنخروسة: زچہ کا کھانا۔
 اچھوانی۔

الخروس والمخروس: مٹکا۔ نخروس
 الخروس: ناقابل زراعت زمین۔
 الخراس: مٹکا بنانے والا یا بیچنے والا۔
 الخروس: زچہ کہ جس کے لئے اچھوانی تیار کی جائے۔

الاخروس: گوٹکا۔ نخروس وخرسان
 وَاخْرَاسٌ مَوْنُثٌ خَوْسَاءٌ. لَبِنٌ اَخْرَسٌ. جِمْا
 ہوا دودھ کہا جاتا ہے۔ "ولانسى غرضاً
 اخروس امس" یعنی اس نے مجھ سے منہ
 پھیر لیا اور گفتگو نہیں کی۔

الخروساء: مہمیت۔ بغیر گرج وچمک کے
 بادل زخجل (خروس): رات کو نہ سونے
 والا مرد۔

خروسة (ض) خروسة وخرشة وخرشة
 مخارشة وخراشا وخرشة: خراش لگانا
ہ الذباب: کاٹنا۔ خروش وخرش
 الفصن: ہنسی کو ڈنڈے سے کھینچنا۔

خراش الكلب: برا بیچنے کرنا۔ خروش
 وخرش لعیالہ: بال بچوں کے لئے کماٹی
 کرنا۔

اخترشت الجراء: ایک دوسرے پر حملہ
 کرنا۔ خراشہ الشئی وخرش منہ
 الشئی: زبردستی لے لینا۔

تخارشت. الکلاب: ایک دوسرے پر حملہ
 کرنا اور نوچنا۔

الخرش: بھٹی۔ واحد (خروسة)۔ گھر کاروی
 سامان۔ نخروش۔

الخراشة: برادہ۔

الخروشاء: سانپ کی کینچلی۔ انڈے کا چمکلا۔
 غبار۔ خروشاء العسل: موم۔ شہد کہ جس
 میں مردہ کھیاں پڑی ہوں۔ نخرواشی۔

المخروش والمخراش: مڑے ہوئے سر کا
 ڈنڈا۔ عوام اس کو بغفخورة کہتے ہیں۔
 خروشب. العمل: کام کو اچھی طرح نہ کرنا۔
 الخروشة: پہاڑ کی چھوٹی چوٹی۔ نخروشع
 وخراشع.
 الخروشة: گفتگو کی گڑبڑی۔ حرکت۔

.....(والمخراش) سخت زمین کہ جس میں
 چلنا دشوار ہو۔
 الخروشوف: ایک قسم کی نباتات۔

الخروشوم: وادی یا ہموار زمین پر نکلی ہوئی
 پہاڑ کی ٹوک۔ بڑا پہاڑ۔ نخرواشیم۔

خروص (نض) خروصا: جھوٹ بولنا۔ فی
 الامر: انکل سے کہنا۔ قیاس کرنا۔ اندازہ
 کرنا۔ کہا جاتا ہے "خروص النخلة" اس
 نے درخت خرما کے پھلوں کا انکل سے
 اندازہ کیا۔

خروص (ن) خرواصة الشئی: درست
 کرنا۔

خروص (س) خروصا: بھوک و سردی والا
 ہونا۔ صفت (خروص وخراص)

تخروص وخرص: تہمت لگانا۔ جھوٹ
 بولنا۔ توشہ دان میں رکھنا۔

الخروص: اندازہ۔ تم کہتے ہو "کم خروص
 ارضک" تمہاری زمین کا کیا اندازہ ہے۔
 توشہ دان۔ چھوٹا نیزہ۔ بھالا۔ مٹکا۔
 نوکری۔

الخروص و الخروص و الخروص و الخروصان
 وخرصان: سونے چاندی وغیرہ کا حلقہ.....
 نخرواص وخراص: درخت خرما کی
 شاخ۔

الخروص و الخروص و الخروص: شہد
 نکالنے کی ککڑی۔ جاخرواص۔

الخروصة: حصہ۔ زچہ کا کھانا۔

الخروص: بخند پانی۔ درختوں کی جڑوں

میں جمع شدہ پانی۔ نہر کی ایک جانب۔

الخرواص: جھوٹا۔
 المخرص: نیزہ۔ نخرواص۔

خروط (نض) خروط. الورق: ہاتھ سے
 مار کر پتے جھاڑنا..... العنقود: انگور کے چھچھے
 کومند میں رکھ کر بغیر دانہ کے نکالنا.....

الشحرة: کھینچ کر پتے جھاڑنا..... العود:
 خراد سے ہموار کرنا..... الخديذ: عمود کی
 مانند لہبا کرنا۔ الخواهر: تھیلے میں جمع کرنا

.....البازي: شکار پر چھوڑنا..... الرجل: فی
 الامر: کسی کام میں لگانا..... الرجل: جھوٹ
 بولنا..... الذلوفی البئر: لٹکانا..... الابل
 فی السرعی: چرنے کے لئے چھوڑنا.....

جاریتہ: جماع کرنا..... بامیہ: گوز کرنا.....
 عبده علی الناس: ایذا رسانی کے لئے
 مقرر کرنا۔

خروط (ن) وخرطہ. الدواء: اسہال
 لانا۔

خروط (س) خروطاً وخرطت. الشاة
 او الناقة: بکری یا اونٹنی کو خرط کی بیماری لاحق
 ہونا..... خروط بالطعام: پھندا لگانا۔

تخروط. فی الامور: دلیری و خود سری کرنا۔

الخروط. الجسم: لافز ہونا۔ الخروطت
 الخروزة فی السلك: پرویا جانا۔ الخروط
 فی المكان: جہدن سے داخل ہونا۔ من:
 نکلتا..... الصقر: شکار پر نوٹ پڑنا۔

بطن الانسان: پیٹ چلنا۔ کہا جاتا ہے
 "الخروط علینا بالقیح" وہ ہمارے اوپر
 فحش گوئی کے ساتھ متوجہ ہوا۔

اخترط. السيف: سومتا..... العنقود: انگور
 کے چھچھے کومند میں رکھ کر بغیر دانہ کے نکالنا۔
 استخرط فی البكاء: پھوٹ پھوٹ کے
 رونا۔

الخروط: خراد کا کام کرنے والا۔ بڑا جھوٹا۔
 الخروط: سارے جسم کی کمزوری۔ جانوروں
 کی ایک بیماری جو ان کے تھن میں ہوتی ہے

اور اس سے جما ہوا دودھ نکلتا ہے۔

الخروط: مندرجہ زور جانور۔ نخروط: بے
 عقلی و نادانی سے کاموں میں دخل دینے
 والا۔

الخراطة: خراد کے کام کا پیشہ۔ السدابة: دوسرے کے جانور کو چند دن کام میں لانا اور پھر واپس کر دینا۔	وخرقان، الخرقوة: بکری کا مادہ بچہ۔ درخت خرما جس کا پھل توڑا جائے۔
الخراطة: براہ۔	الخراعة: بھس۔ بے باکی۔	الخرقوة: چٹا ہوا میوہ۔
الخريضة: تھیلا۔ ملک کا نقشہ۔ اٹلیس۔	الخزوع: ارٹھی کا پودہ جس سے کسراں تیار ہوتا ہے۔	الخريف: موسم خریف۔ گرمی اور جاڑے کے درمیان کا زمانہ۔ موسم خریف کی بارش اور نسبت کے لئے (خريفى و خريفى و خريفى) جتنی ہوئی کھجور۔
خريضة: کوحارطہ: بھی کہتے ہیں اور عربی مضور یا مخطوط ہے۔ برودہ پودہ جو نرمی سے دہرا ہو جائے۔ واحد خروعة۔	الخريفة: درخت خرما جس سے تر کھجوریں چینی جائیں۔
الخريطان: اٹھوری جس کو جانور کھاتے ہیں اور امریکی لوگ اس کا مشروب پیتے ہیں۔	الخزاع: اونٹنی کی دیوانگی۔ اونٹنی کی پیٹھ کی غلٹنی۔	الخريفة: باطل بات۔ ح خرافات: چٹا ہوا
المُخروط: وہ بکری یا اونٹنی جس کو خرط کی بیماری لاحق ہو۔ ح مخاريط۔	الخزوع والخريوع والخزوع. من النساء: نزاکت سے جھک جھک جانے والی عورت۔ ح خزائع و خزوع. عيش خزوع: آسودہ زندگی۔ رجل خزيع: کمزور مرد۔ نفاقه خزيع و مخزوعه: اونٹنی جس کو دیوانگی لاحق ہو۔	المخروف: چھوٹی ٹوکری۔ جس میں عمدہ کھجوریں چین کے رکھی جائیں۔
المخروطة: خراد کرنے کا اوزار۔ ح مخارط۔	خريف (س) و خروف (ک) خرفا: بڑھاپے کی وجہ سے فاسد عقل ہونا۔ صفت (خروف) مؤنث (خروفه)	المخروفة: درخت خرما کی دو قطاروں کے درمیان کا راستہ۔ ح مخارف: بڑھاپے کی وجہ سے عقل کی خرابی۔
المخروط: منقح۔ کم دائرہ والا۔ لمبا چہرہ جس میں عرش کم ہو۔	خروف (ن) خرفا و خرافا و خرافا و مخرفا. الصمر: چٹنا۔	المخارف: من الرجال: محروم۔ خرفش. الشئ: ملانا۔ خلط ملط کرنا۔
بنو مخروطة: ننگ منہ کا کنواں۔	خريف (س) و خروف (ک) خرفا: بڑھاپے کی وجہ سے فاسد عقل ہونا۔ صفت (خروف) مؤنث (خروفه)	خرق (ن ش) خرقا. الثوب: پھاڑنا۔
الجخرطيط: منقش پروں والا پروانہ۔ ح خراطيط۔	خروف (ن) خرفا و خرافا و خرافا و مخرفا. الصمر: چٹنا۔	خرقا بالرمح: تیز ہمارا۔ الكذب: جھوٹ گھڑنا۔ المفاضة: طے کر کے انتہا تک پہنچنا۔ العادة: عادت کے خلاف کرنا۔
الخزطوم و المخروطم: سونڈ۔ جلدی نثر لانے والی شراب۔ اٹھور کا پانی جو ملنے سے پہلے نکلے۔ خراطيم القوم: سرداران قوم۔	خروف (ن) خرفا و خرافا و خرافا و مخرفا. الصمر: چٹنا۔ البناء وفي البناء: روشن دان کھولنا۔
خزطمه: سونڈ پر مارنا۔	خروف (ن) خرفا و خرافا و خرافا و مخرفا. الصمر: چٹنا۔	الريخ: تیز چلانا۔ الرجل: جھوٹ بولنا۔
الخريف: ناک بلند کرنا۔ غضبناک ہونا۔ تکبر کرنا۔	خروف (ن) خرفا و خرافا و خرافا و مخرفا. الصمر: چٹنا۔	خرق (ن) خرقا. في البيت: لگا تار قیام کرنا۔
الخزطون: زمین کے اندر بسنے والا کیڑا جو کہ زمین کو زراعت والی بنانے میں فائدہ مند ہے۔	خروف (ن) خرفا و خرافا و خرافا و مخرفا. الصمر: چٹنا۔	خرق (س) خرقا: خوف یا شرم سے دہشت زدہ ہونا۔ صفت (خرق)۔ في البيت: لگا تار قیام کرنا۔ الغزال او الطائر: اٹھنے یا اڑنے سے عاجز ہونا۔
خروعة (ف) خروعا: پھاڑنا۔	خروف (ن) خرفا و خرافا و خرافا و مخرفا. الصمر: چٹنا۔	خرق (س) خرقا: خوف یا شرم سے دہشت زدہ ہونا۔ صفت (خرق)۔ في البيت: لگا تار قیام کرنا۔ الغزال او الطائر: اٹھنے یا اڑنے سے عاجز ہونا۔
خروع (س) خروعا. الشئ: ٹوٹنا۔	خروف (ن) خرفا و خرافا و خرافا و مخرفا. الصمر: چٹنا۔	خرق (س) خرقا: خوف یا شرم سے دہشت زدہ ہونا۔ صفت (خرق)۔ في البيت: لگا تار قیام کرنا۔ الغزال او الطائر: اٹھنے یا اڑنے سے عاجز ہونا۔
والمخروع و تخروع الرجل: ست ہونا۔ ناقص رائے ہونا۔ کمزور جسم ہونا۔ انخروعت القنائة: پھٹنا۔ نکلنے نکلنے ہونا۔	خروف (ن) خرفا و خرافا و خرافا و مخرفا. الصمر: چٹنا۔	خرق (س) خرقا: خوف یا شرم سے دہشت زدہ ہونا۔ صفت (خرق)۔ في البيت: لگا تار قیام کرنا۔ الغزال او الطائر: اٹھنے یا اڑنے سے عاجز ہونا۔
خروع (ک) خراعة و خروعا و خروعا: ذہیلے جوڑوں والا ہونا۔ صفت خروع و خرويع۔	خروف (ن) خرفا و خرافا و خرافا و مخرفا. الصمر: چٹنا۔	خرق (س) خرقا: خوف یا شرم سے دہشت زدہ ہونا۔ صفت (خرق)۔ في البيت: لگا تار قیام کرنا۔ الغزال او الطائر: اٹھنے یا اڑنے سے عاجز ہونا۔
خروع. الثوب: عصفر (کسم) سے رنگنا۔	خروف (ن) خرفا و خرافا و خرافا و مخرفا. الصمر: چٹنا۔	خرق (س) خرقا: خوف یا شرم سے دہشت زدہ ہونا۔ صفت (خرق)۔ في البيت: لگا تار قیام کرنا۔ الغزال او الطائر: اٹھنے یا اڑنے سے عاجز ہونا۔
الخروع. الشئ: پھاڑنا۔ پیدا کرنا۔ ایجاد کرنا اور اس سے (الخروعة) بنے۔	خروف (ن) خرفا و خرافا و خرافا و مخرفا. الصمر: چٹنا۔	خرق (س) خرقا: خوف یا شرم سے دہشت زدہ ہونا۔ صفت (خرق)۔ في البيت: لگا تار قیام کرنا۔ الغزال او الطائر: اٹھنے یا اڑنے سے عاجز ہونا۔
..... فلانا: خیانت کرنا۔ دھوکا دینا۔	خروف (ن) خرفا و خرافا و خرافا و مخرفا. الصمر: چٹنا۔	خرق (س) خرقا: خوف یا شرم سے دہشت زدہ ہونا۔ صفت (خرق)۔ في البيت: لگا تار قیام کرنا۔ الغزال او الطائر: اٹھنے یا اڑنے سے عاجز ہونا۔

تَخْرُقُ وَانْخَرْقُ وَاخْرُوقُ :
بھلنا۔ و تَخْرُقُ الكَذِبَ : جھوٹ گھڑنا۔
تَخْرُقُ فِي الكَرَمِ : بے حد فیاضی کرنا۔
تَخْرُقُ وَانْخَرْقُ الرِّيحُ : تیز چلنا۔
اخْخَرْقُ : الارضُ : زمین میں ایک طرف کو
بغیر راستہ کے چلنا۔ القوم : قوم کے
درمیان سے چلنا۔ الكَذِبُ : جھوٹ
گھڑنا۔
الْخَرْقُ : مَص - سوراخ۔ کشادگی۔ بغیر
گھاس پانی کا بیابان۔ کشادہ زمین جس میں
بوا میں تیز چلیں۔ خَرْقُ :
الْخَرْقُ : اخْخَرْقُ وَخَرْقُ وَخَرْقُ
(والْخَرْقُ) : فیاض۔ خُی۔
الْخَرْقُ وَالْخَرْقُ وَالْخَرْقَةُ : رائے کی
کمزوری۔ نادانی و بے وقوفی۔ خُی۔ نَوْمَةُ
الْخَرْقُ : چاشت کے وقت کی نیند۔ اس کو
نَوْمَةُ الخَرْقُ : اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس
وقت سوئے سے عبادت بڑھتی ہے۔
الْخَرْقَةُ : کپڑے کا ایک ٹکڑا۔ خَرْقُ :
چھینٹرا۔ و جی۔
الْخَرْقُ : فَا۔ وہ چیز جو متشائے عادت کے
خلاف ہو۔ خَرْقُ :
الْخَرْقُ وَالْخَرْقُ : ٹھنڈی تیز ہوا۔
الْخَرْقُ : نرم ہوا۔ خَرْقُ : وادی کا کشادہ
حصہ۔ پانی بہنے کی جگہ۔
الْخَرْقَاءُ : اخْرُقُ : کاموث۔ کشادہ زمین۔
تیز ہوا۔
الْمَخْرُقُ : بے گھاس پانی کا بیابان۔ خَرْقُ
مَخْرُقُ : مَخْرُقُ : استعمال عام طور پر
بدن کے منافذ جیسے منہ ناک وغیرہ پر ہوتا
ہے۔
الْمَخْرُقَةُ : جھوٹ۔
الْمَخْرُقُ : خوبصورت بدن والا۔ فیاض۔
تجربہ کار۔ خَرْقُ : مَخْرُقُ : وہ
کپڑا جس کو بٹ کر نیچے کھیل کرتے ہیں۔
الْمَخْرُقُ : تیز رفتار۔
الْمَخْرُقُ : گزرگاہ۔ مَخْرُقُ : الرياح : ہوا

کے چلنے کی جگہ اور کہا گیا ہے "مکانِ خاوی
المُخْرَقُ" یعنی ایسی جگہ جہاں کوئی چلنے والا
نہ ہو۔
خَرْمَةُ (ن) خَرْمًا : شگاف ذالنا۔ سوراخ
کرنا۔ خرم الخَرْمَةُ : توڑنا۔ ہ : ناک کی
درمیانی ہڈی پھاڑنا۔ الانسرة : ناک توڑ
دینا۔ عن الطریق : ہٹ جانا۔ کہا جاتا
ہے "خَرْمَةُ الخَوَارِمُ" یعنی وہ مر گیا۔
و "مَخْرَمَةٌ مِنْهُ شَيْئًا" میں نے اس میں
سے کچھ کم نہیں کیا۔
خَرْمُ (س) خَرْمًا : تھنوں کے بیچ کی چھدی
ہوئی ہڈی والا ہوتا۔ صفت (اخْخَرْمُ)
خَرْمُ (ک) خَرْمًا : شوخ و بے باک
ہونا۔ صفت (خارم و خوریم)
خَرْمُ : الخَرْمَةُ : سوراخ کرنا۔
تَخْرَمُ : لوٹنا۔
تَخْرَمَةُ وَانْخَرَمَةُ : ہلاک کرنا۔ جڑے
اکھینا۔ انْخَرَمَةُ المرضُ : لاغر کرنا۔
تَخْرَمَتُهُ وَانْخَرَمَتُهُ المنیةُ : اس کو موت نے
لے لیا۔
انْخَرَمُ : عنا : مرنا۔
انْخَرَمُ : انْفُ : تھنوں کے بیچ کی ہڈی کا
چھدنا۔ کہا جاتا ہے "انْخَرَمُ ذَلِكَ الْقَرْنُ"
یہ زمانہ ختم ہو گیا۔
الْمَخْرَمُ : مَص - پہاڑ کی نگلی ہوئی ٹوک۔ خَرْقُ
خَرْوَمُ :
الْمَخْرَمَانُ : جھوٹ۔
الْمَخْرَمَةُ : ناک میں چھدنے کی جگہ۔
الْمَخْرَمَاءُ : چھدنا ہوا کان۔ عسرة خرماء :
بکری جس کا کان عرض میں پھاڑ دیا گیا ہو۔
الْمَخْرَمَةُ : انسان کی ناک کا بانسہ یا دونوں
تھنوں کا درمیانی حصہ۔
الْمَخْرَمُ : موٹے ہاتھ کا کنارہ۔ شاہِ روم کا
لقب۔
الْمَخْرَمَانُ : اوپر کے جڑے میں دو سوراخ
دار ہڈیاں۔
الْمَخْرَمُ : پہاڑ کی ٹوک کا آخری سرا۔ خَرْقُ

مَخْرَمُ : مخارم۔ مخارم اللیل : رات کے ابتدائی
حصے۔
خَرْمَشُ : الكتاب : مٹانا۔ بگاڑنا۔
خَرْفَقُهُ : بالسيف : تلوار سے مارنا۔
الخَرْقُ : جوان خرگوش۔ خَرْقُ :
الخَرْقُ : بادشاہ کے کھانے پینے کی مجلس۔
ایک نباتات۔
خَرْقُ (ن) خَرْقًا : الحناط : دیوار پر کانٹے
رکھنا۔ خَرْقُ النَمْرِ : کچھ کھانا ہونا۔
صفت (خَرْقُ) : (و الخَرْقَةُ) : بالروح : نیزہ
مارنا۔ کہا جاتا ہے "خَرْقَةُ وَانْخَرْقَةُ"
ببصرہ "اس نے اس کو اپنی نگاہ میں رکھا۔
الخَرْقُ : ریشم۔ ریشم اور اون کا بنا ہوا کپڑا۔ خَرْقُ
خَرْوَرُ :
الخَرْقُ : خرگوش۔ خَرْقُ : واجزة۔
الخَرْقُ : بہت ہی خشک عوج (عوج ایک
کانٹے کا نام ہے)
الخَرْقُ : ریشم فروش۔
الخَرْقَةُ : خرگوش کی جگہ۔
خَرْبُ (س) خَرْبًا : الجملد :
بغیر روکے سو جتا۔ صفت (خَرْبُ)
..... الشاةُ : سو جے ہوئے تھنوں والی ہونا۔
صفت (خَرْبَةُ وَخَرْبَاءُ)
الخَرْبُ : الخَرْبُ : نرم گوشت۔ ایک
نکڑے کو (خَرْبَةُ وَخَرْبَانَةُ) کہتے ہیں۔
الخَرْبُ : شتر مرغ کا نیچے۔
الخَرْبَةُ : سونے کی کان۔
الخَرْبُ : الخَرْبُ : مینی علی الكسرة :
ایک قسم کی کھیاں جو باغوں میں ہوتی ہیں۔
باغ کی کھیبوں کی جھنڈیا۔
خَرْبُ (ن) خَرْبًا : کھیبوں سے دیکھنا۔
چالاک ہونا۔ صفت (خَرْبُ)
خَرْبُ (س) خَرْبًا : عینہ : جگہ آنکھ
والا ہونا۔ صفت (خَرْبُ) : موٹ خَرْبُ : ج
خَرْبُ : خَرْبُ : بھاگنا۔
خَرْبُ : الشی : جگہ کرنا۔
تَخَرْبُ : نگاہ تیز کرنے کے لئے لٹکوں کو

رکنا..... ه عن قسومہ: علیحدہ کرنا۔ الودیعة: واپسی سے روک کر خیانت کرنا۔ الخزلة: بھنگلی پٹ۔ الخزلة: مراد سے روکنے والا۔ الخزولی والخزلی: ایک قسم کی چال جس میں ناز و انداز ہو۔ خزم (ض) خزما، اللالی، پروتا۔ (..... وخزم) البعیر: تاک میں حلقہ ڈالنا۔ کہا جاتا ہے "خزم انف فلان" یا "جفل فی انفہ الخزامة" فلان کی تاک میں ناتھہ ڈال دی۔ یعنی تابع و سخر کر لیا۔ خزامة مخازمة الطریق: دو مختلف راستوں سے چل کر ایک جگہ ملنا۔ تخزم، الشوک فی رجلہ: چھپنا۔ تخازم، الجیشان: دونوںوں کا ایک دوسرے کے مقابل ہونا۔ الخزوم: ایک درخت جس کی چھال سے ری بناتے ہیں۔ الخزامة والخزام: ایک قسم کی نباتات جس کا پھول بہت خوشبودار ہوتا ہے۔ الخزامة: ہار ایک چیز جس سے دو تسموں کو باندھا جائے۔ مخزائم۔ الخزومة: گائے۔ یا چھوٹے قد اور زیادہ عمر والی گائے۔ الانخزم: نرسانپ۔ شراک (مخزوم): کتا ہوا تسمہ۔ خزن (س) خزنا و الخزن۔ المال: ذخیرہ کرنا۔ جمع کرنا۔ السر: چھپانا۔ اللسان: زبان روکنا۔ الخزن الطریق: قریب ترین راستہ اختیار کرنا۔ خزن (ن) خزنا و خزونا و خزن (س) خزنا و خزن (ک) خزانة۔ اللحم: بدبودار ہونا۔ صفت (خزین) اخزن: محتاجی کے بعد مال دار ہونا۔ استخزن، المال: ذخیرہ کرنے کو کہنا۔ استخزن المال: ذخیرہ کرنا۔	الخزعة: خوش طبعی و مذاق۔ خزعل، فی مشبه بثلکرا... سلماشی: پاؤں کو جھاڑنا۔ الخزعل: بچو۔ الخزعة: خوش طبعی و کھیل کود۔ خزف (ض) خزفا، فی مشبه: ہاتھ ہلاتے ہوئے چلنا..... الشوب: پھاڑنا..... الشی: چیرنا۔ الخزف: واحد (خزفة): بھیکری۔ مٹی کے کپے ہوئے برتن۔ الخزاف والخزفی: مٹی کے برتن بنانے والا یا بیچنے والا۔ خزفه (ض) خزفا: آہستہ نیزہ مارنا۔ خزفه بالسهم: تیر مارنا۔ خزق الطائر: بیت کرنا..... الشی فی الارض: گاڑنا۔ تخزق و الخزق: چھپنا۔ الخزق، السیف: بھنگی ہونا۔ میان سے نکل پڑنا۔ الخزاق: قا۔ نیزے کا پھل۔ الخزاق: تیز سرے کا ایک لہاؤنڈا جس کو مجرم کی دہریں داخل کرتے تھے اور وہ اس پر مر جایا کرتا تھا۔ مخزاق: مولدین نے اسی سے فعل "خزق" بنایا ہے۔ المخزقة: چھوٹا نیزہ۔ خزک (س) خزکا: اصرار کرنا۔ خزل (س) خزلا: شکست پشٹ ہونا۔ صفت (اخزل و مخزول)۔ خزل (ض) خزلا، الشی: کاٹنا..... ه عن حاجتہ: روکنا۔ تخزل: کتنا۔ بوھمل چلنا..... السحاب: الاخترال: علم حساب میں حذف کرنا اور کثیر کو قلیل کی طرف لانا۔ کرا اور اختصار۔ انخزل: گرا ناری سے چلنا..... فی کلامہ: رک جانا..... عن الجواب: لا پرواہی کرنا..... من المكان: علیحدہ ہونا۔ انخزل، الشی: کسی چیز کو کاٹ لینا۔ ه: عیب لگانا..... برایہ: علیحدہ رائے	سمیٹنا۔ الخزوز: آکھ کی بھنگی۔ ایک قوم جن کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں اور اسی سے ہے "بخر الخزوز" یعنی بحر کبیرین۔ الخزوزة والخزوزة: پیٹھ کا درد۔ الخزوزة: بدترین قسم کا بھیگنا پن جس میں آکھ کا ذھیلا کپٹی والے گوشے کی جانب اُلٹ جاتا ہے۔ الخزوزان: بانس۔ نیزے۔ نرکل۔ ہرزم کزوی۔ کزوی جس سے ملاح کشتی کو چلاتا ہے۔ واحد (خزوزانة) ج خیزور۔ الخیزور: نرکل۔ الخوزوی والخیزوی: ایک قسم کی چال ناز و انداز کے ساتھ۔ خزوف، فی مشبه: ہاتھوں کو ہلاتے ہوئے چلنا۔ خزوع (ف) خزعا و تخزوع، الشی: کاٹنا..... عن القوم: پیچھے رہ جانا۔ خزوع منه شیئا: لینا۔ تخزعووا الشی: باہم تقسیم کرنا۔ خزوع الشی: کاٹنا..... الشی بینہم: تقسیم کرنا۔ انخزوع العجل: نشت سے کٹ جانا۔ الرجل: بڑھاپ یا کزورن کی وجہ سے جھکتا۔ اخزعه: لینا۔ ه عن القوم: جدا کر لینا۔ الخزاع: موت۔ الخزاعة: ایک پاؤں سے بھنگا پن۔ الخزاعة: گوشت کا ٹکڑا۔ الخزاعة: بگڑا جو کسی چیز سے کاٹا جائے۔ الخزوع: بڑھاپا۔ الخزوزة: ریگ کا تودہ جو بڑے تودہ سے جدا ہو۔ الخزوع: وہ شخص جو لوگوں کے مال کو اڑا لے۔ الخزوعیل والخزوعیل: خوش طبعی کی باتیں۔ باطل باتیں۔
--	--	---

الجزانة والخزينة: ذخیرہ رکھنے کی جگہ۔ ج
خزائن. الجزانة: خزانچی کا پیشہ۔

السخان: فنا۔ ذخیرہ کرنے والا۔ سخان
الایمر: خزانچی۔ ج خزنة وخيزان.
السخان: زبان۔

السخنة والسحنة: خزانہ۔ ذخیرہ کیا ہوا
مال۔

السخن: زبان۔

المخزن: ذخیرہ کرنے کی جگہ۔ ج مخازن.
مخازن الطريق: مقصود کی طرف قریب ترین
راستہ۔

خزاه (ن) خزوا: غالب آنا۔ سیاست
کرنا۔ خواہش نفسانی سے روکنا۔ دشمنی کرنا۔
خز الذابة: سدھانا۔

خزى (س) خزينا وخزى: ذلیل ہونا۔
مصیبت میں مبتلا ہونا۔ خزينة وخزى منه
خزاية وخزى: شرم کرنا۔ صفت (خزى):
مؤنث خزينة و(خزيان) مؤنث خزياء ج
خزايا.

خزى (ض) خزيا: ہ۔ شرمندگی میں ڈالنا۔
رسوا کرنا۔ بہت زیادہ رسوا ہونا۔

خزاه مخزاة: شرمندگی میں ڈالنا۔

أخزاه إخزاه: شرمندگی میں ڈالنا۔ ذلیل
کرنا۔ اہانت کرنا اور جب کوئی شخص کوئی
پسندیدہ فعل کرے تو کہا کرتے ہیں "أخزاه
الله ما أشقره" جیسے کہ کہتے ہیں "قاتله الله
ما أشجعته" ان جیسی دعاؤں میں معنی کا
اعتبار نہیں ہوتا۔

إستخزى: شرم محسوس کرنا۔

الجزى: ذلت۔ رسوائی۔ عذاب۔ دوری۔
الجزية والسحنة: بلاء۔ مصیبت۔ ذلیل
کن عادت۔

المخزاة: باعیت رسوائی و شرمندگی۔

خس (س) خساسة وخسوسة وخسة:
رذیل ہونا۔ وزن یا اندازہ میں کم ہونا۔

صفت (خسيس) ج خساس وأخسة.

خس (ن) خسا وخسس.

نصيبه حصه لم کرنا۔

أخس: گھٹیا کام کرنا..... ہ: رذیل پانا۔
حقارت کرنا۔ أخس خطه: حصہ کم کرنا۔

تخاسوا: الشئ: کسی چیز کو آپس میں لینا
دینا اور اس کی طرف سبقت کرنا۔

استخسه: رذیل پانا۔ حقارت کرنا۔

الخص: خس۔ خس الحمار وخس
البقر: دو جنگلی گھاس کے نام۔

الخساس: ہر وہ چیز جس کو لوگ آپس میں
دیں لیں۔

الخساسة: تھوڑا مال۔

الخيسنة الخسيس کامؤنث۔ ج
خسائس وخسائس الأمور: حقیر باتیں۔
شئ (خساسة ومخسوس) معمولی گھٹیا
چیز۔

السختان: ستارے جو غائب نہ ہوں۔ جیسے
نجات العرش۔

خسا (ف) خسا: الكلب: دھتکارنا۔
(.....) خسا وخسونا: البصر: چندھیا جانا۔
نگاہ کا تھک جانا (.....) وخسوى (س) خسا

وانخسا: الكلب: دور ہونا۔ دھتکارا جانا۔
خاسا مخاساة وتخالسا وتخاسوا: القوم:
آپس میں ایک دوسرے کو پتھر مارنا۔

الخيسى: گھٹیا اُون وغیرہ۔

الخاسي: فا..... من الخنازير والكلاب:
دھتکارے ہوئے کتے و سور جو لوگوں کے
قریب نہ آنے دیے جائیں۔

الخبيج: خیمہ۔ اُون کا بنا ہوا کمبل۔

خيسر (س) خسرا وخسرا وخسرا
وخسارا وخسارة وخسارنا: نقصان

گھانا۔ گمراہ ہونا۔ ہلاک ہونا۔ صفت
(خاسير وخبيز وخيسرى)
خسر (ض) خسرا وخسارنا.

الميزان: کم کرنا۔ گھٹانا..... المال: ضائع
کرنا۔

خسرة وأخسرة: نقصان کرنا۔ گمراہ
کرنا۔ ہلاک کرنا۔ أخسر الرجل: نقصان

میں پڑنا۔ أخسر الميزان: گھٹانا۔ کم کرنا۔
الخاسر: فنا۔ كورة خاسرة: غیر مفید عملہ۔
الخسسر والخسيري: وہ شخص جو نقصان
میں ہو۔ ج خناسرة.

خسيع خسفا: عنہ کذا: کسی سے کسی چیز کو
دور کیا جانا۔

خسابع القوم وخسبتهم: قوم کا نہیں
ترین فرد۔

خسف (ض) خسوفا: المكان: جنس
جانا..... القمر: گھن گھنا..... العين: آنکھ کا

جانا رہنا یا اندر کو جنس جانا..... السقف:
گھنا..... الشئ: کم ہونا..... الرجل: دوبا

ہونا۔ خسف في الأرض وخسيف به:
زمین میں دھسا..... خسفا) الشئ:

کاٹنا..... العين: پھوڑنا..... الله الأرض:
مع ساری چیزوں کے دھسا دینا..... الله

الأرض بفلان: زمین میں دھسا دینا۔ البشر:
پتھر پٹی زمین میں کٹواں کھودنا جو ہمیشہ

جاری رہے..... فلانا: ذلیل کرنا۔ ناپسندیدہ
امر پر مجبور کرنا۔ خسف الشئ: خسف

هو: پھاڑنا اور پھسنا (لازمی و متعدی)
أخسفت وانخسفت: عينه: اندھی ہونا

..... الأرض: مع ساری چیزوں کے دھس
جانا..... البئر: گر جانا۔

الخسف: عیب۔ ذلت۔ کہا جاتا
ہے "سافه خسفا وخسفا" اس نے اس کو

ذلیل کیا اور اس کو مشقت کی تکلیف دی۔
الخسف: کنوئیں کا سوت۔

الخاسيف: فنا۔ دھنسی ہوئی آنکھ۔ بیماری
کی وجہ سے لاغر۔ بھوکا۔ ج خسف.

الخسيف والخسيف: اثر و واحد
(خسفة): کہا جاتا ہے "تاتوا على

الخسيف" انہوں نے فاتح سے رات
گزاری۔ و "سربنا على الخسيف" بغیر

کچھ کھائے ہوئے ہم نے پیا۔
الخسيف ج أخسفة وخسف
(والخسوف) ج خسف من الابار:

فروتنی دکھانا۔

انخسح: کسی کے سامنے سر جھکاتے ہوئے فروتنی کرنا۔

المخاشع فامكان خاشع: وہ جگہ جس کا راستہ نہ ملے۔ بلدۃ خاشعۃ: وہ شہر جس میں اترنے کی کوئی جگہ نہ ہو۔ جذاز خاشع: دیوار جو گزر کر زمین کے ہموار ہوگئی ہو۔

الجشعۃ: بچہ جو مردہ ماں کے پیٹ کو پھاڑ کر نکالا گیا ہو۔

الخشعۃ: پست نیلہ۔ ج خشع۔

خشف (ن ض) خشوفاً و خشفاناً:

ملک میں جانا اور غائب ہو جانا۔ رات میں چلنا۔ الماء: جمناء۔ البرد: تیز ہونا۔ وانخشف (فی الشیء): داخل ہونا۔

خشف (ض) خشافاً بالقوم: ساتھ چلنا اور راہبری کرنا۔ خشفاً و خشفۃً: الجلید: برف پر چلنے سے آواز نکلنا۔ فی السیر: تیز چلنا۔

خشف (س) خشفاً البعیر: پورے بدن پر خارش والا ہونا۔ صفت (أخشف): مؤنث خشفاء۔ ج خشف۔

خشف: راستہ تلتانا۔

خاشف: الی الشیء: برائی کی طرف سبقت کرنا۔ کہا جاتا ہے "خاشف فی ذمیتہ" اس نے بد عہدی کرنے میں جلدی کی۔

خاشف السہم: سناہت سنائی دینا۔

أخشف: الطیبۃ: بچہ والی ہونا۔

المخاشف: قا۔ سیف خاشف: تیز تلوار۔

ماء (خاشف و خشف): جما ہوا پانی۔

الخشف: بتلیث الخاء: ہرن کا نوزائیدہ بچہ۔ ج خشفۃً (..... و الخشف): ہزرنگ کی کاشی۔ واحد (خشفۃ)

الخشف والخشفۃ والخشفۃ: آواز۔

حکرت۔ آبت۔ الخشف: ذلت۔

الخشف والخشف: گھنیا تم کا اون۔

الخشوف: معاملات میں دخل دینے والا

..... من الرجال: رات کے وقت چلنے میں

ولیر۔ تیز۔ من السیوف: تیز تلوار۔

الخشاف: چوگا ڈر۔

المخشف: وہ جگہ جہاں پانی جم گیا ہو۔

المخشف: راہبر۔ معاملات میں دخل

دینے والا۔ رات کے وقت چلنے میں

ولیر۔ تیز۔

خشلۃ (ن) خشلاً و خشلۃ: حقیر بنانا۔

خشل الشراب: صاف کرنا۔

خشل (س) خشلاً: الثوب: بوسیدہ ہونا۔

نخشل: ذلیل ہونا۔ سر جھکانا۔ ردی چیز

لانا۔

الخشل والخشل: ردی۔ الخشل: ہر

جو قدر چیز۔ خالی کیا ہوا انڈا۔ واحد

(خشلۃ): کہا جاتا ہے رجل (خشل فسل

و خشل فسل): کمزور مرد۔

خشمۃ (ض) خشماً: ناک کی جز توڑنا۔

خشیم (س) خشماً و خشوماً: چوڑی

ناک والا ہونا۔ الانف: بد بو دار ہونا۔

خشیم (س) خشماً و خشیم و خشیم

و خشیم: اللخم: بد بو دار ہونا۔ خشمۃ

الشراب: ناک کی جڑیں شراب کی بو پھینک کر

مست کر دینا۔

الانخشم: چوڑی ناک والا۔ بوحسوس نہ

کرنے والا۔ انف انخشم: بد بو دار ناک۔

مؤنث خشماء ج خشم۔

الخیشوم: ناک کی جڑ۔ ج خیشیم۔

الخیشیم: ناک کے اندر کی رگیں۔

خیشیم الجبال: پہاڑوں کی چوٹیاں۔ کہا

جاتا ہے "أشرف جیشیم الجبال"۔

الخشام: شہر۔ بڑی ناک والا۔ بڑا پہاڑ

جس کی بڑی چوٹی نکلی ہوئی ہو۔

رجل (مخشوم) مست مرد۔

خشن (ک) خشنة خشانۃ و خشونة

و خشنة: سخت و کھر درا ہونا۔ صفت

(خشن) ج خشان۔

خشنة: سخت و کھر درا بنانا۔ کہا جاتا ہے۔

"خشن صدرة" اس نے اس کو غصہ دلا کر

بھڑکا دیا۔

خاشنة: سختی کا برتاؤ کرنا۔

تخشن: سخت کھر درا ہونا۔ سخت زندگی بسر

کرنا۔ مونا کھر درا پہننا۔

تخاشن: تکلف سختی برتنا۔

استخشن: الشیء: کھر درا پانا۔

اخشوشن: سخت کھر درا ہونا۔ علیہ صدرة

: غضبناک ہونا۔

الخشین: سخت طبیعت والا۔

الانخشن: سخت و کھر درا۔ مؤنث خشناء ج

خشن: کہا جاتا ہے "رجل أخشن" برے

حال والا۔ و "هو أخشن الجانب" وہ

دشوار طاقت سے زیادہ ہے۔ "کشیۃ

خشاء" بہت تھمرا والی فوج۔

خشیۃ (س) خشياً و خشياً و خشیۃ

و خشاء و خشاء و خشیاناً و مخشیۃ

و مخشاة: ڈرنا۔

خشاء تخشیۃ و خشاء: ڈرانا۔ خشاء

فلاناً: کسی سے خوف دلانا۔

الخشی و الخاشی و الخشیان و الخشی:

ڈرنے والا۔ مؤنث خشائیۃ و خشیۃ

و خشیانۃ و خشیانۃ ج خشیاناً۔ الخشی

و الخشی من النبات: خشک گھاس۔ کہا جاتا

ہے "هذا المكان أخشى من ذاک" یہ

جگہ اس سے زیادہ خوفناک ہے۔

خص (ن) خصاً و خصوصاً و خصوصۃ

و خصوصیۃ و تخصۃ و خصیۃ

و خصیصی و خصیصاء فلاناً یا الشیء:

خاص کرنا۔ خصوصیت دینا۔ کہا جاتا ہے

خصه بالوۃ: یعنی اس نے اسی کے ساتھ

محبت کی (..... خصوصاً) الشیء: خاص ہونا

..... الشیء لنفسیہ: اپنے لئے چھانٹ لینا۔

خص (س) خصاصۃ و خصاصاً

و خصاصاء: بھتان ہونا۔

خصص: الشیء: خاص کرنا۔ وبالشیء

گردینا۔
 خَاصِرَةٌ مُخَاصِرَةٌ: ہاتھ پکڑ کر چلنا۔ کسی کے پہلو میں چلنا یا کسی کے کمر پر ہاتھ رکھ کر چلنا۔
 اِخْتَصَرَ: اپنے پہلو پر ہاتھ رکھنا۔ الکلام: مختصر کرنا۔ الطریق: قریب کا راستہ چلنا۔
 فسی الشئی: زائد چیزیں حذف کرنا۔
 الرُّجُلُ: ہاتھ میں لاشی وغیرہ لینا۔ بِالْقَصَا: نیک لگانا۔
 تَخَاصَرَ: اپنی کمر پر ہاتھ رکھنا۔ القوم: ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اکٹھے چلنا۔
 تَخَصَّرَ: اپنے پہلو پر ہاتھ رکھنا۔
 بِالْمَخْضَرَةِ: لاشی کو ہاتھ میں لینا۔
 الخَصْرُ: کمر۔ خَصْرُ الْقَدَمِ: تلوے کا گہرا حصہ جو زمین سے نہ لگے۔ جِ خَصُورٌ۔
 الخصر: سردی۔
 الخصر: ٹھنڈا۔
 الخصار: ازار۔
 الخَاصِرَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ: پہلو کا درد۔
 المَخْضَرَةُ: نیک لگانے کی چیز جیسے لاشی چھڑی وغیرہ۔ عَصَايَ شَاهِي جَسْ كُو بَادشَاهِ تَقْرِيرِ كِ وَتِ اِپْنِے ہَاتھ مِیْنِ لَے۔ جِ مَخَاصِرِ الطَّرِيقِ: اقرب ترین راستہ۔
 المَخْضَرُ: ہار یک کر والا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مَخْضَرُ الْقَدَمِينَ" وہ ایسا شخص ہے جس کا تلواز میں سے نہیں لگتا۔
 رَجُلٌ (مَخْضُورٌ) كَرِيَا پِہلو مِیْنِ دَرْدِ الْوَالَا۔
 اَخْضَرَ: مختصر۔ اِخْتَصَرَ: کاسم تفضیل ہے اور شاذ ہے۔
 خَصَفَ (ض) خَصْفًا وَ اَخْضَفَ وَ اِخْتَصَفَ. النعل: جوتا بیٹا۔ جوتے پر ایک اور چمچاڑھانا۔ الشئی علی الشئی: چمکانا۔ کہا جاتا ہے "هُمْ يَخْصِفُونَ اَقْدَامَ الْقَوْمِ بِالْقَدَمِہِم" وہ لوگ قوم کی قدم بقدم بیرونی کرتے ہیں۔

وَيُنْبِطُ الْفَاتِرُ كَقَائِلَةِ الْهَوَاجِرِ وَ خُضُوصًا فِي شَهْرِي نَاجِرِ.
 الخصاص: بمس۔ دروازہ کی جھری۔ برقع وغیرہ کا سوراخ۔ کہا جاتا ہے "بَلَدُ الْقَمَرِ مِنْ خِصَاصِ الْغَيْمِ" چاند بادل کے درمیان سے ظاہر ہو گیا۔ "وَلَمْخَصَةُ مِنْ خِصَاصِ الْبَابِ" میں نے اس کو دروازہ کی جھری سے دیکھا۔ مکان وغیرہ میں شکاف۔ واحد (خِصَاصَةٌ) اور کہا جاتا ہے "سَدَدْتُ خِصَاصَةَ فَلَانٍ" میں نے فلاں کی محتاجی دور کر دی۔
 خُوَيْصَةٌ: الانسان: وہ شخص جو خدمت کرنے کے لئے مخصوص ہو۔
 خَصَبٌ (ض) وَ خَصِبٌ (س) خِصْبًا الْمَكَانُ: سرسبز ہونا۔ زرخیز ہونا۔ صفت وَ خَصِبٌ وَ خَصِيبٌ وَ مُخْصَبٌ وَ مِخْصَابٌ
 اَخْضَبَ الْمَكَانُ: سرسبز ہونا۔ اللہ الْمَكَانُ: سرسبز کرنا۔ الشاة: سرسبزی میں پہنچنا۔ القوم: سرسبزی پانا۔ کہا جاتا ہے "اَخْضَبَ جَنَابُ الْقَوْمِ" قوم کا مقام سرسبزو شاداب ہے۔
 الخصب: شگوفہ خرا۔ بہت پھل دار درخت خرا۔ واحد (خِصْبَةٌ)
 الجصِب: سبز گھاس کی کثرت۔ فراخی زندگی۔ جِ اَخْضَابُ: کہا جاتا ہے "تَلَدُ خِصْبٍ وَ اَخْضَابُ" (جمع کا صیغہ مبالغہ کے لئے) یعنی سرسبز شہر اور کہا جاتا ہے "اَرْضُ خِصِيْبٍ وَ اَرْضُوْنَ خِصْبٌ وَ اَرْضُ خِصْبَةٍ وَ خِصْبَةٌ"۔
 الجصِب: بہت پھل دار درخت خرا۔ واحد (خِصَابَةٌ)
 (رجل خِصِيْبٍ) بہت فیض والا مرد۔
 خِصِرٌ (س) خِصْرًا. اليوم: ٹھنڈا ہونا۔
 الرُّجُلُ: ٹھنڈک کی وجہ سے اطراف اعضاء میں تکلیف پہنچنا۔
 اَخْضَرَ. الْقَرَأَاتِہِ: سردی کا انگلیوں کو ٹھنڈا

کسی کو کسی چیز کے ساتھ خاص کرنا۔
 السَّلامُ: کلزی کے سرے پر آگ لے کر گھمانا۔ پیلھی گھمانا۔
 اِخْتَصَّ: محتاج ہونا۔ بِالشئی: خاص ہونا۔
 ہ الشئی: خاص کرنا اور اسی سے ہے۔
 "اللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ" اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔
 تَخَصَّصَ: بِالشئی: خاص ہونا۔ تَخَصَّصَ الرُّجُلُ: خاص لوگوں میں سے ہونا۔
 اِسْتَخَصَّ: الشئی: مخصوص ہونے کی درخواست کرنا۔
 الخِصْصُ: بانس یا کلزی کا جمبو پڑا۔ شراب پیچنے والے کی دکان۔ جِ اَخْضَاصُ وَ خِصُوصُ وَ خِصَاصُ. شہر (جِصْصٌ) ناقص مینہ۔
 الخِصَاصُ: فَا۔ عام کی ضد۔ یکتا۔
 الخِصَاصَةُ: عَامَّةٌ: کی ضد۔ وہ چیز جس کو تم اپنے لئے خاص کر لو۔ خِصَاصَةُ الْمَلِكِ: بادشاہ کے مقرب لوگ۔ خِصَاصَةُ النَّبَاتِ: نباتات کی قوت و اثر۔ جِ خِصَاصُ (.....) وَ الْخِصَاصُ وَ الْخِصَانُ وَ الْخِصَانُ) من الفہم: بریریدنا دورا۔ لوگ۔ کہا جاتا ہے "اِنَّمَا تَفْعَلُ هَذَا خِصَانُ النَّاسِ" اس کو بڑے بڑے لوگ ہی کرتے ہیں۔
 الْخِصَاصِيَّةُ: خاصہ کی جانب نسبت۔ جِ خَاصِيَّاتٍ وَ خِصَاصِيَّاتٍ۔
 الْاِخْتِصَاصُ: اِفْتِصَالُ۔ کہا جاتا ہے "لَمْ يَكُنْ فِي اَطْبَائِہِ اَخْصُ مِنْ هَذَيْنِ"۔
 الْخِصَاصَةُ: انگوٹھ ڈالنے کے بعد تیل میں چھوئے ہوئے دانے۔ تھوڑا۔ قلیل۔ جِ خِصَاصُ۔
 الْخِصُوصُ وَ الْخِصُوصُ: علیحدگی۔ اس کے مقابلہ میں عموم ہے۔ انحصار۔ اس کے مقابلہ میں اطلاق ہے اور کہا جاتا ہے "عَلِيَّ الْخِصُوصِ وَ خِصُوصًا" یعنی خاص طور پر جیسے حریری کا قول ہے۔ لَنْ يُصْفَلَ الْخَاطِرُ

<p>سوارتا۔ خاضة مُخاضة: بیج بالعوض کرنا۔ الخضض: سفید مہرے۔ رنگ رنگ کے کھانے۔ بے ہودہ گفتگو۔ کہا جاتا ہے "منطق خضض" الخضاض: کم حیثیت زیور۔ روشنائی۔ قیدی کی بیزی۔ کتے یا بلی وغیرہ کے گلے کا پٹا۔ رجل خضاض وخضاضة: بے وقوف مرد۔ مکان (خضیض) پانی سے تر جگہ۔ خضب (ض) خضبا وخضب الشئی: رنگین کرنا۔ خضب (ض) وخضب (س) خضوبنا وخضب واخضب الشجر او المکان: سرسبز ہونا۔ تخضب واخضب: بالجناء: رنگین ہونا۔ صفت (خضیب) ج خضب و (مخضوب و مخضیب) اخضوب واخضیبا: الشجر: سرسبز ہونا۔ الخضاب: شتر مرغ جس کے بیج پر اور جس کی ٹانگیں موسم ربیع کی گھاس کھانے سے سرخ ہو گئی ہوں۔ الخضب: بودوں میں ہزمادہ جو کہ کلورین کے نام سے مشہور ہے وہ پتوں اور دانوں میں ہوا کے اندر کاربن کے آنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جس کی مدد سورج کی شعاعیں بھی کرتی ہیں۔ (کلوروفل بھی کہتے ہیں)۔ الخضب: مہس۔ درخت کی سبزی۔ بارش کے بعد نئی آگئی ہوئی سبزی۔ ج خضوب۔ الخضاب: رنگ۔ رنگ کرنے کی چیز۔ الخضبة: بہت خضاب لگانے والی عورت۔ الخضوب: بارش کے بعد نئی آگئی ہوئی سبزی۔ الخضیب: رنگا ہوا۔ کہا جاتا ہے "مخف خضیب وامرأة خضیب" رنگی ہوئی</p>	<p>الخضصل: لکے ہوئے درخت کا کنارہ۔ الخضلة: بالوں کا گچھا۔ گوشت کا عضو۔ الخضيلة: بالوں کا گچھا۔ گوشت جس میں پٹھا بھی ہو۔ ج خضیل وخضایل: کہا جاتا ہے "اذا تعددت فرائضه واضطررت خضائله" اس کے شانہ کا گوشت کا پٹنے لگا اور پٹھے والا گوشت تھر تھرانے لگا۔ المخضل: ششیر براں۔ (مفصل میں ایک ضعیف اخت) المخضال: دارقی۔ خصمه (ض) خصما: جھگڑے میں غالب آنا۔ خصامة خصاما ومخاصمة: جھگڑا کرنا۔ اسم (الخضومة) ہے۔ اخضمة: جھگڑا کرنے کے لئے دلیل سمجھانا۔ تخاضم واخضم: القوم: ایک دوسرے سے جھگڑنا۔ الخضم: مہس۔ مد مقابل۔ مخالف۔ جھگڑا کرنے والا۔ شتر مرغ اور موٹ کے لئے بھی مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے "أهنا وهم وهي خصمي"۔ ج خضوم وخضام واخضام۔ الخضم: جانب۔ گوشہ۔ ج اخضام وخضوم۔ الخضم: جھگڑا۔ ج اخضام وخضام وخضمان۔ الخضم ج اخضام وخضمون و (الخضوم) جھگڑا۔ مخالف۔ مد مقابل۔ خصی (ض) خصاء: ہ۔ خصی کرنا۔ الخصی: فوطوں میں درو والا۔ الخصی: وہ شخص جس کے فوطے نکال لئے گئے ہوں۔ آخت۔ ج خصیة وخضیان۔ الخصیة: فوطہ۔ ج خصی۔ خصیة البحر وخصی الغلب وخصیة الدیک وخصیة الکلب: مختلف نباتات کے نام۔ خضض: الخاریة: سفید مہرے پہنا کر</p>	<p>خصف: بہ: پیچھے کیا جانا۔ لاحق کیا جانا۔ خصف: بدخلق ہونا۔ جو کچھ اپنے پاس نہ ہو اس کے تکلف میں کوشش کرنا۔ کہا جاتا ہے "خصف الشیب" بڑھاپے نے اس کے نصف بال سفید کر دیئے۔ الخصف: مہس۔ جوتا۔ الخصف: سیاہ اور سفید سے مرکب رنگ۔ الخصف: کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ٹوکری۔ موٹا کپڑا۔ ج خصف وخصاف۔ الخصف والخصف: چڑے کا ککڑا جس سے جوتے کو سیاہ جاتے۔ الخصف: جوتے وغیرہ کا سوراخ۔ الخصاف: بڑا جموٹا۔ موپٹا۔ الخصیف: راکھ۔ سلا ہوا جوتہ۔ تازہ دودھ جو دہی پر ڈالا جائے (..... والاختصاف) سفید و سیاہ۔ سفید پہلوؤں والا گھوڑا یا بکری۔ الاخصف: شتر مرغ۔ موٹ خصفاء۔ شاة (مخضوفة) سفید و سیاہ رنگوں والی بکری۔ خصل (ن) خصلا الشئی: کاٹنا۔ جدا کرنا (خصل ن) خصلا وخصلا القوم: قائل ہونا۔ مرتبہ میں بڑھ جانا۔ خصله: نکلے کرنا..... الشجر: چھاٹنا۔ خصله خصلا ومخاصلة: تیر اندازی میں شرط لگانا۔ اخصل: الزامی نشہ پر حیک لگانا۔ تخاصل: القوم: تیر اندازی میں باہم شرط لگانا۔ الخصل: مہس۔ تیر کا نشانہ پر لگانا۔ شرط جو تیر اندازی میں مقرر ہو۔ جس پر جو اٹھیا جائے۔ کہا جاتا ہے "آخر ز خصله" واسب خصله" یعنی وہ غالب رہا۔ ج خصول۔ الخصلة: عادت (حسن یا قبیح) غالب استعمال (لئے ہے) تیر کا نشانہ پر لگانا۔ ج خصال (والخصلة) گچھا۔ کانٹے دار ککڑی۔ ترکڑی کا کنارہ۔ ج خصل</p>
---	---	--

<p>المُخَضَّرَةُ: سبزہ زار۔ خَضْرَمُ: الأذن: کان کا کچھ حصہ کاٹ لیتا۔ الخَضْرَمُ: بہت پانی والا کنواں۔ بہت بڑا سمندر۔ کہا جاتا ہے "تَحْرُ خَضْرَمٌ" بہت پانی والا سمندر۔ و"رَجُلٌ خَضْرَمٌ" بہت فیاض مرد۔ (..... وَالخَضْرَامُ) ج خَضْرَمُونَ خَضْرَمٌ وَخَضْرَامَةٌ. الخَضْرَمُ: بیٹھے اور کھاری کے درمیان کا پانی گوہ کا بچہ۔ الخَضْرَمُ: غیر مختون۔ وہ شخص جو خود کا لانا ہو اور اس کا باپ سفید رنگ کا ہو۔ وہ شخص جو حسب کے لحاظ سے ناقص ہو۔ وہ شخص جس نے جاہلیت و اسلام کے زمانوں کو دیکھا ہو۔ "مَاءٌ مُخَضْرَمٌ" بیٹھے اور کھاری کے درمیان کا پانی۔ خَضَعُ (ف) خَضُوعًا وَخَضَعًا وَخَضَعَانًا: عاجزی کرنا۔ فروغی کرنا۔ سرگندہ ہونا۔ صفت (خاضع) ج خاضِع و (خضوع) ج خضِع..... لَهُ: تابع و فرمانبردار ہونا..... النجم: مائل بغروب ہونا..... الرجل: ساکن کر دینا۔ خَضَعُ (س) خَضَعًا: الرَّجُلُ: جھکا ہوا ہونا۔ صفت (اخضع) مؤنث خضعاء۔ خَضَعَةٌ: عاجز کرنا..... اللحم: بکڑے ٹکڑے کرنا۔ اخضع: عاجز ہونا..... ہ: عاجز کرنا۔ کہا جاتا ہے "اخضعنني اليك الحاجة" تمہارے سامنے حاجت نے مجھ کو عاجز بنا دیا۔ الكبر: فلانا: بڑھاپے کا کسی کو پست گردن بنا دینا۔ خاضعة: نری سے گفتگو کرنا۔ تخضع و اخضوع: جھکتا عاجزی ظاہر کرنا۔ اخضع: عاجز ہونا..... الصقر: ٹوٹ پڑنے کے لئے سر جھکانا..... في سبوة: تیز چلنا۔ الخضع: بھس۔ پیدائشی گردن کی پستی۔</p>	<p>اللبل: سیاہ ہونا۔ اخضُر: الفاكهة: وقت سے پہلے کچا کھانا..... العشب: سبز رہتے ہوئے کاٹنا..... السجارية: بلوغ سے پہلے بکارت زائل کرنا۔ اخضُر: جوان مرنا۔ الخضُر والخضِر: اس ذات گرامی کا نام جن سے سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی ملاقات ہوئی تھی اور اس کی کچھ تفصیل سورۃ کہف میں ہے۔ الخضِر: سبز۔ سنی۔ کھیتی۔ سبز ترکاری۔ سبزہ زار۔ الخضار: نئی سبزی۔ زیادہ پانی ملا ہوا دودھ۔ الخضیر: سبز۔ سبز ترکاری۔ الخَضْرَة: سبز رنگ۔ ترکاری۔ نری و نازکی۔ کہا جاتا ہے "غَضْنٌ فِيهِ خَضْرَةٌ" سبزی جس میں نری ہو۔ ج خَضْرٌ وَخَضْرٌ "خَضْرَةُ الدَّمَنِ" کوڑے کی سبزی (اسی چیز جس کا ظاہر اچھا ہوا اور باطن خراب ہو اس کے لئے بطور کنایہ استعمال کرتے ہیں) وَالخَضْرَةُ فِي الوانِ الالهِلِ وَالغَيْلِ "شیا لاجس میں سیاہی ملی ہوئی ہو..... فسی الوانِ الناس: گندم گولی۔ الخضار: سبزی فروش۔ الخَضَارَة: سبز ترکاریاں۔ خضارۃ: سمندر کے لئے علم ہے اور تائید اور معرفت کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ الخَضَارِيُّ وَالخَضِيرِيُّ: ایک قسم کا پرندہ جس کا رنگ سبزی مائل زرد ہوتا ہے اور اس کو انیل بھی کہتے ہیں۔ ج خَضَارِيٌّ. الخَضْرَاءُ: اخضر: کا مؤنث۔ القبة الخضراء: آسمان۔ و خضراء القوم: قوم کا بڑا حصہ۔ ج خَضْرَاءُ رَاوَات. الخَضْرَاءُ: ترکاریاں۔ میوے۔ الاخضران: گھاس و درخت۔ الاخاضِر: سونا۔ گوشت و شراب۔ الاخضِر: کبھی۔ آکھ کی ایک بیماری۔</p>	<p>بھیل۔ خضاب لگانا ہوئی عورت۔ ج خُضْبُ: الكفُّ الخَضِيبُ: ایک ستارے کا نام۔ الخَضِيبُ: کپڑے دھونے یا رنگنے کا برتن۔ لگن۔ خَضَخَضَ خَضَخَضَةً: الماء ونحوه: بلانا۔ تخضخض: بلنا۔ الخضاخض: من الاماكن: جگہ جس میں پانی و درخت زیادہ ہوں۔ بڑے پیت والا موٹا مرد (..... وَالخَضَخَضُ) بچھوئی اور پروائی کے درمیان کی ہوا۔ خَضَدُ (ض) خَضَدًا: العود: بغیر جدا کئے ہوئے توڑنا۔ موڑنا..... الشجر: کاٹنے کا ٹکڑا..... الرَّجُلُ: کڑی گاجر وغیرہ کی مانند تریز چیز کھانا۔ خَضَدُهُ: کاٹنا۔ تَخَضَّدَ وَانْخَضَدَ: العود: ٹوٹنا۔ انْخَضَدَتِ الفسار: بیلوں کا پارہ پارہ ہونا۔ الخَضَدُ: کائی ہوئی یا ٹوٹی ہوئی لکڑی۔ بچھوں کی پڑمردگی۔ نباتات کی کمزوری۔ خَضَدَ البَدَنُ: کاپٹی کے ساتھ بدن کا درد اور ٹوٹنا۔ خَضَدَ الشَّفَرُ: تکان سفر (..... وَالخَضَادُ) اعضاء کا درد۔ الخَضَدُ وَالْمَخْضُودُ: اٹھنے سے عاجز کمزور۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ مَخْضُودٌ" وہیل سے عاجز مرد۔ الاخضد والمخضد: دوہرا ہونے والا۔ الميخضد: بہت کھانے والا۔ خَضِرُ (س) خَضْرًا: سبز ہونا..... الزرع: سرسبز و شاداب ہونا۔ خَضِرُ (ن) خَضْرًا: النخل: کاٹنا۔ اخضر: الرئی النبات: سرسبز و شاداب کرنا۔ خَضِرُ: الشئی: سبز کرنا۔ خاضرة مُخاضرة: درخت کے اوپر ہی کچا پھل بچ دینا۔ اخضُرُ وَاخْضُوْضُرُ: سبز ہونا۔ وَاخْضُرُ</p>
---	---	---

الاخضع: ذلت پر راضی۔ دبی ہوئی گردن والا۔ الخضعة: ہر ایک سے عاجزی ظاہر کرنے والا۔ اپنے ہمسر پر غالب آنے والا۔ نج خضع الخضعة والخضعة: تلواریں۔ کوڑے۔ تلواروں اور کوڑوں کی آواز۔ کہا جاتا ہے "سيفت ليليات خضعة" میں نے کوڑوں کے پڑنے کی آواز سنی۔ الخضبة: آواز جو جانور کے پیٹ سے سنائی دے۔ سیلاب کی آواز۔ الخضبة: لڑائی کا شور۔ میدان جنگ اور اس کا غبار۔ الخضوع: من الرجاء: ذلت پر راضی ہونے والا۔ خضف (ش) خضفا و خضفا: گوز کرنا۔ صفت (خضيف و خضوف و خضاف) الخضف: چھوٹا کدو یا گڑی یا خربوزہ۔ خضل (س) خضلا و خضل و اخضل و اخضوضل: تر ہونا۔ نمناک ہونا۔ صفت (خضل و خاضل) کہا جاتا ہے "عیش خضل" شاداب زندگی و شواء خضل" اچھی طرح سے بھنا ہوا گوشت۔ و "بسنان خضل" خون سے تر تیزہ۔ خضل و اخضل: الشی: تر کرنا۔ اخضال و اخضل: تر ہونا۔ الشجر: بہت نشی اور بکثرت پتے ہونا۔ الخضل و الخضل: صاف موتی۔ ایک قسم کے مہرے۔ واحد (خضلة) الخضلة: تر و تازگی۔ آسودگی۔ نعمت۔ زندگی کا آرام و آسودگی۔ الخضيلة: سرسبز و شاداب باغ۔ المخضل و المخضل: آسودہ زندگی والا۔ خضم (ش) و خضم (س) خضما۔	الطعام: انتہائی داڑھ سے کھانا۔ منہ بھر کے کھانا۔ انخضم: لذیذی العطاء: زیادہ دینا۔ الخضم: بڑا سمندر۔ سردار۔ بڑا فیاض (عورت کی صفت میں یہ نہیں آتا) بڑی جماعت۔ سامان رکھنے کا پتھر۔ سيف خضم: بشیر براں۔ الخضام و الخضامة: وہ چیز جو انتہائی داڑھ سے کھائی جائے۔ الخضيمة: سبز نباتات۔ بہت نباتات والی زمین۔ ابلہ ہوا گیہوں۔ الخضمة: درمیان۔ چیز کا بڑا حصہ۔ المخضم و المخضم: آسودہ زندگی والا۔ خط (ن) خطا: بالقلم: لکھنا۔ الخطة لنفسه: نشان لگا کر اپنے لئے مخصوص کرنا۔ الشي: قلم وغیرہ سے لکھنا۔ الشي: نشان لگانا۔ علامت لگانا۔ سبزہ آغا ز ہونا۔ عذارة: رخسار پر بال لکھنا۔ القبر: کھودنا۔ الرضاخ الرمل: دھاری ڈالنا۔ في الارض: لکیر کھینچنا۔ کہا جاتا ہے "خماراة فضا خط غبارة" اس نے اُس کا مقابلہ کیا اور گرد کو بھی نہ پہنچا اور کہا جاتا ہے "فلائن بخط في الارض" فلاں اپنے معاملہ میں غور فکر کر رہا ہے۔ خط الطعام و في الطعام: تھوڑا کھانا۔ في نومه: خرابے لینا۔ خطط: لکیریں کھینچنا۔ الخطوط: نقش کرنا۔ البلاة: حد و مقرر کرنا۔ اخطط: الوجه او غيره: دھاری دار ہونا۔ السلام: سبزہ آغا ز ہونا۔ الارض او الدار: اپنا معلوم ہونے کے لئے حد بندی کرنا۔ خطة: معین کرنا۔ علامت لگانا۔ الخاط: نا۔ جا دوگر۔ الخط: تحریر۔ کتابت۔ لہا راستہ۔ خط الاستواء: وہ فرضی خط جو گروہ زمین کو دو حصوں شمالی و جنوبی میں تقسیم کرتا ہے۔ ج	خطوط. و خطوط الكف: ہاتھوں کی لکیریں۔ الخط و الخط: راستہ۔ مرکز۔ محلہ۔ الخط و الخط: وہ زمین کہ جس پر سب سے پہلے تم آئے اور تم سے پہلے کوئی نہیں آیا۔ زمین کا وہ حصہ جو کوئی اپنے لئے خاص کر لے۔ ج خطط۔ الخطة: کام۔ کہا جاتا ہے "بيلك خطة لينث من بالي" یہ کام میری شان کا نہیں ہے۔ "وفى زاسه خطة" اس کے سر میں کوئی خیال ہے۔ خصلت۔ جہالت۔ مشکل معاملہ جس کا کوئی حل نہ ملے۔ ج خطط: کہا جاتا ہے "فلائن ينسي خطط المكارم" فلاں شرافت اور بزرگی کے مقامات کی بنیاد رکھتا ہے۔ الخطي: تیزہ جو خط کی جانب منسوب ہے اور بحرین کی ایک بندرگاہ کا نام ہے جہاں تیزے بکتے تھے۔ خطية۔ الخطوط: زمین پر پاؤں کا نشان چھوڑنے والا۔ عورت کے ابرو رنگنے کی چیز۔ جنگلی گائے۔ الخطاط: بہت لکھنے والا۔ الخط: کپڑے پر دھاری ڈالنے کی لکڑی۔ المخطط: دھاری دار۔ خوبصورت۔ خطي (س) خطا غلطی کرنا۔ في دينه: قصداً یا بلا قصد غلطی کے راستہ پر چلنا۔ (خطا و خطاة) گناہ کرنا۔ صفت (خطاسي) ج خطاة: مؤنث خطاطة ج خواطی۔ خطات (ف) خطا: القدر بسزیدھا: جھاگ پھینکنا۔ خطاة تخطينا و تخطينة: غلطی کی طرف نسبت کرنا۔ اخطا اخطاء و خاطنة: غلطی کرنا۔ الطريق: چوک جاتا۔ الرجل: غلطی میں ڈالنا۔ الرسامی العرض: نشانہ برز لگانا۔
---	--	--

..... فی عملہ براہ راست سے ہٹ جانا۔
تَخَطُّأً وَتَخَطُّأً: غلطی کرنا۔ تَخَطُّأً
وَتَخَطُّأً: غلطی میں ڈالنا۔ السُّهُمُ الرُّمِيَّةُ
نشانہ سے ہٹ جانا۔ تَخَطُّأً لَهٗ فِى
الْمُسْتَلْقِ وَبِهَا: کسی کی غلطی ڈھونڈنے کے
دریے ہونا۔

الخَطَّاءُ: گناہ۔
الخَطَّاءُ وَنَخَطًا وَخَطَاءً: گناہ اور بقول
بعض غیر ارادی گناہ۔ غلطی۔
الخَطَّاءُ: بہت غلطی کرنے والا۔ بہت گناہ
کرنے والا۔

الخَطِيئَةُ: گناہ اور بقول بعض ارادی گناہ۔
ج خَطَايَا وَخَطِيئَاتٍ.

خَطَبٌ (ن) خُطْبَةٌ وَخَطْبًا وَخَطَابَةٌ: وعظ
کہنا۔ تقریر کرنا۔ پیکچر دینا۔ حاضرین کے
سامنے خطبہ پڑھنا۔ کہا جاتا ہے "خَطَبٌ
الْقَوْمِ وَفِي الْقَوْمِ" اس نے قوم کے سامنے
تقریر کی۔

خَطَبٌ (ك) خَطَابَةٌ: واعظ ہونا۔ مقرر
ہونا۔ پیکچر ہونا۔

خَطَبٌ (ن) خَطْبًا وَخُطْبَةً وَخَطِيئِي
الْفَنَاءَ: منگنی کرنا۔ صفت (خاطب) کہا جاتا
ہے "خَطَبُ الْفَنَاءِ عَلِيٌّ فَلَانٌ" اس نے
فلاں کے لئے لڑکی کی منگنی کی۔

خَطَبٌ (س) خَطْبًا الشَّيْءُ: تیرہ مائل
سرخ زرد ہونا۔

خَاطِبَةٌ خَطَابًا وَمُخَاطِبَةٌ وَتَخَاطَبٌ: باہم
گفتگو کرنا۔ کہا جاتا ہے "خَاطِبَةٌ فِيْ فَلَانٍ"
اس نے اس سے فلاں کے بارے میں گفتگو
کی۔

أَخْطَبُ الصَّيْدُ فَلَانًا: قریب ہونا۔
الجَنْطَةُ: ریلین ہونا۔ الجَنْطَلُ: زرد ہونا
اور سبز دھاریاں پڑنا۔

اِخْتَطَبَ الْفَنَاءَ: منگنی کرنا۔ القَوْمُ فَلَانًا
قوم کی لڑکیوں میں سے کسی لڑکی سے شادی
کرنے کے لئے کسی کو بلا نا عسلی المسبیر:
خطبہ دینا۔

الْخَطْبُ: بمص۔ حالت۔ کہا جاتا ہے "ہا
خَطْبُكَ" تمہاری کیا حالت ہے اور کس چیز
نے تم کو اس پر برا بیخیز کیا ہے۔ معاملہ خواہ
چھوٹا ہو یا بڑا عموماً بڑے اور نا پسندیدہ معاملہ
کے لئے استعمال ہے۔ ج خَطُوبٌ.

الْخَطَابُ: گفتگو۔ فَضْلُ الْخَطَابِ:
فصاحت۔ حکم جو دلیل یا قسم کے ساتھ دیا
جائے۔ خَطِيبٌ كَالْحَمْدِ اللَّهِ كَيْ بَعْدَ مَا بَعْدَ كَبْرًا.
الْخُطْبَةُ: تقریر۔ گفتگو۔ خُطْبَةُ الْكِتَابِ:
کتاب کا دیا چا۔ الخَطْبَةُ: تیرہ رنگ جس
میں سرخی زردی ملی ہوئی ہو۔

الْخَطْبُ: منگنی کرنے والا مرد۔ عورت جس
سے منگنی کی جائے۔ کہا جاتا ہے "هُوَ خَطْبِيهَا
وَهِيَ خَطْبِيَّةٌ" ج اخطاب.

الْخَطْبِيَّةُ: بمص۔ منگنی کرنا۔ عورت جس سے
منگنی کی جائے۔
الْخَطْبُ: منگنی کرنے والا۔ بہت تقریر
کرنے والا۔

الْخَطَابِيَّةُ: بہت تقریر کرنے والا (مذکر
مؤنث) الْخَطَابُ: کامؤنث۔

الْخَطَابِيَّةُ: شیعہ رافضیہ میں سے ایک
فرقہ جو کہ اپنے امیر ابو الخطاب کی طرف
منسوب ہیں۔ وہ ان کو اپنے مخالفین کے
خلاف جھوٹی گواہی دینے کا حکم کرتا تھا۔

الْخَطْبِيَّةُ: منگنی کرنے والا۔ خطبہ پڑھنے
والا۔ کہا جاتا ہے "زَجَلْتُ خَطْبِيَّةً" خوش
بیان مرد۔ ج خَطْبَاءُ.

الْخَطْبِيَّةُ: عورت کو پیغام نکاح دینے والا۔
ج خَطْبِيَّةُونَ.

الْخَطْبِيَّةُ: عورت جس کو کوئی پیغام نکاح
دے۔

الْأَخْطَبُ: شکر۔ مِنَ الْخَنْطَلِ: بہتر
دھاریوں والا اندر این۔ الْأَخْطَبُ:
خطابت کا اسم تفضیل ہے جیسے کتابت سے
أَخْطَبٌ: اور شغور سے اشغور کہا جاتا ہے
"حَمَانُ أَخْطَبٌ أَهْلُ زَمَانِهِ" وہ اپنے زمانہ
کے لوگوں میں بڑا مقرر تھا۔

خَطْرٌ (ض) خَطَرٌ أُنَا وَخَطِيرٌ أُنَا: فِئِي
مَشِيئَةٍ: ہاتھوں کو اوپر نیچے کرتے ہوئے
چلنا۔ الْوَيْحُ: بلنا۔ سَيْفِيهِ أَوْ رُمْحِهِ: فخر و
غرور سے بلانا۔ بَيْدِهِ: چلنے میں آگے
پیچھے کرنا۔ خَطَرًا وَخَطَرًا أُنَا وَخَطِيرًا
الْجَمْلُ بَدَنِيهِ: بار بار اٹھانا اور رانوں پر
مارنا۔

خَطَرٌ (ن ض) خُطُورًا: الْأَمْرُ لَهُ: سوجنا
خَطَرَاتِ الْخَوَادِثِ: جیش آنا۔ خَطَرُ الْأَمْرِ
بِنَالِهِ وَعَلَى وَفِي نَالِهِ: بھولنے کے بعد یاد
آنا۔

خَطْرٌ (ك) خَطْرًا وَخُطُورَةً: عالی مرتبہ
ہونا۔ صفت (خَطِيرٌ) ج خَطْرٌ.
خَاطِرٌ مُخَاطِرَةٌ: بِنَفْسِهِ: خطرہ میں ڈالنا
..... ہ علی كَذَا: شرط لگانا۔

أَخْطَرَ الشَّيْءُ فِي أَوْعَالِي أَوْبَالِهِ: یاد دلانا
..... ہ: بلند مرتبہ میں ہم مثل ہونا۔ السَّمَالُ:
مال کو شرط پر رکھنا۔ السَّرِيضُ: خطرہ میں
ہونا۔ صفت (مُخَطِرٌ)

تَخَطَّرِي: چھاندنا۔ تجاوز کرنا۔ کہا جاتا ہے
"تَخَطَّرَ إِنِّي شَرُّ فُلَانٍ" فلاں کا شر مجھ سے
تجاوز کر گیا۔

تَخَاطَرَ الْقَوْمُ عَلَى الشَّيْءِ: شرط لگانا۔
الْخَطْرُ: غلہ کا ایک بڑا پیمانہ (..... وَالْخَطْرُ)
اُونٹ کے سرینوں پر بیٹھتی اور پیشاب مل کر
جما ہوا۔ بادل جو سامنے ظاہر ہو۔

الْخَطْرُ: بہت پانی ملا ہوا دودھ۔ بہت سے
اُونٹ۔ شاخ۔ ایک قسم کی گھاس جس کو بطور
خضاب کے استعمال کرتے ہیں۔ ج أَخْطَارُ.

الْخَطْرُ: قریب بہلاکت ج أَخْطَارُ کہا جاتا
ہے "زَجَلْنَا الْأَخْطَارَ" وہ لوگ خطروں میں
پڑ گئے۔ شرافت۔ بلندی۔ رتبہ۔ مثل۔ ہم
پلہ (اور ذی مرتبہ چیز ہی میں استعمال ہوتا
ہے) جیسے فِئِي ظَلِّ عَيْشِ خَطِيرٍ مَالَهُ
خَطْرٌ: شرط جو کھوڑ دوز میں لگائی جائے۔ ج
خَطَارٌ. جج خَطْرٌ.

الْخَطْرَةُ: ایک بار۔ تم کہتے ہو "مَالَقِيئْتَهُ إِلَّا

خَطْرَةٌ" میں اس سے ایک بار ملا۔

الخَطَائِرُ: فا۔ امر یا تدبیر جو دل میں نزرے خیال اور کبھی دل اور نفس پر بھی مجازاً اطلاق کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے "وَقَعَ فِي خَطَائِرِي" میرے دل میں واقع ہوا۔ و"فَلَانٌ سَرِيعُ الخَطَائِرِ" فلاں تیز طبیعت ہے۔ و"جَاشَ الشَّيْءُ فِي خَطَائِرِي" میرے دل میں شے کی آمد ہوئی۔ ج خَوَائِرُ

الخَطَارُ: الخَطَائِرُ: کا اسم مبالغہ۔ عطر فروش۔ نیزہ مارنے والا۔ نیزہ۔ گوچھن۔ زیتون کا خوشبودار تیل۔ شیر۔ الخَطَارَةُ: اونٹوں کا بازہ۔

الخَطِرُ: عالی مرتبہ۔ شریف۔ مہار۔ رتی۔ تر مرے۔ رات کی تاریکی۔ دھمکی۔ شادمانی۔ بلند رتبہ چیز کا مثل۔ کہا جاتا ہے "لَيْسَ لَهُ خَطِيرٌ" اس کا کوئی ہم پلہ نہیں۔ الخَطَائِرُ: خطرے (اس کے لئے مفرد نہیں)

الخَطْرُبُ وَالخَطْرَابُ: افترا پرداز۔ جھوٹا۔

خَطْرَفٌ وَتَخَطْرَفٌ: حملے میں جلدی کرنا۔ صفت (خَطْرَيْفٌ وَخَطْرَفٌ) خَطْرَفُهُ بِالشَّيْفِ: تلوار سے مارنا۔

خَطِفٌ (س) خَطَفًا: الشَّيْءُ: اُجْك لِيْنَا البَرْقُ البَصْرُ: چندھا کر دینا۔ السَّمْعُ: چوری سے سننا۔

خَطَفٌ (س) وَخَطَفٌ (ض) خَطَفَانَا: تیز چلنا۔ صفت (خَطِيفٌ وَخَطِيفٌ) خَطَفٌ: اُجْك لِيْنَا: (تشدید مبالغہ اور تکثیر کے لئے ہے)

اخْطَفَهُ: خطا کرنا۔ ہ المرضُ: بیماری کا ہلکا ہونا یا بالکل زائل ہونا۔ السَّرْجُلُ: کچھ تیار ہونا اور جلدی سے ٹھیک ہونا۔

تَخَطَفٌ وَاخْطَفٌ: الشَّيْءُ: جھین لینا۔ کھینچنا۔ نکال لینا۔ اُجْك لِيْنَا۔

الخَطْفُ وَالخَطْفُ: لاغری اور پہلوؤں کا

پن۔

الخَطْفَةُ: جھینا۔ عضو جس کو درندہ جھینا مار کر اتار لے یا انسان کسی زندہ جانور سے کاٹ لے۔

الخَطَائِفُ: فا۔ بجھڑیا۔ تیز جو زمین پر پڑ کر نشاندہ پر گئے۔ ج خَوَائِفُ.

اخْطَفَ: الحَشَى: ڈبلا۔

الخَطَائِفُ: درانگی کی مانند جس کو جال میں باندھ کر بہن وغیرہ کا شکار کرتے ہیں۔

الخَطَائِفُ: الخَطَائِفُ: کا اسم مبالغہ۔ چور۔ شیطان۔ ابابیل کی مانند ایک پرندہ۔

الخَطَائِفُ: آگس کی مانند ایک قسم کا میڑھا لوبا جس سے کسی چیز کو اُچک لیا جائے۔ ج خَطَائِفٌ وَخَطَائِفُ السَّبَاعِ: درندوں کے چنگل۔

الخَطِيفِيُّ وَالخَطِيفِيُّ: تیز رفتاری۔ کہا جاتا ہے "هُوَ نَمِيشِي الخَطِيفِيُّ" وہ تیز چلتا ہے۔ الخَطِيفِيَّةُ: ایک قسم کا کھانا جو آٹے میں دودھ ملا کر پکاتے ہیں اور پھر چچے سے جلدی جلدی کھاتے ہیں۔

خَطِلٌ (س) خَطَلًا وَاخْطَلُ: فِي كَلَامِهِ: بہت بولنا اور فحش بولنا۔ فِي مَنطِقِهِ أَوْ رَأْيِهِ: نطقی کرنا۔ جیسے "إِصَالَةُ الرَّأْيِ صَانِتِي مِنَ الخَطَلِ" رائے کی اصالت نے مجھ کو نطقی سے بچایا۔

تَخَطَّلَ: فِي المَشْيِ: ناز انداز سے چلنا۔ الخَطَالُ: باطل۔

الخَطَلُ: مَمْسٌ: بے وقوفی۔ سکی۔ سرعت۔ بہت رومی گفتگو۔ کہا جاتا ہے "أَزَى فِي مَشِيَّتِهِ خَطَلًا" میں اس کی چال میں ضعف محسوس کرتا ہوں۔ گفتگوئے پریشان۔

الخَطَلُ: بے ہودہ گفتگو والا۔ بے وقوف۔ نَهْمٌ خَطَلٌ: نشاندہ سے خطا کرنے والا تیر۔ ثَوْبٌ خَطَلٌ: مونا کھردرا کپڑا جو لمبائی کی وجہ سے زمین پر کھینچے۔ ج أَخْطَالٌ اور کہا جاتا ہے "رَجُلٌ خَطَلٌ البَيْدِيْنِ" سخت ہاتھوں والا

مردو "زُمُحُ خَطَلٌ" بے ڈول لمبا نیزہ۔

الخَطِيلُ: تیز اور جلدی نیزہ مارنے والا۔ جیسے "أَخْوَسُ فِي النَّهْجِجَاءِ بِالرُّمُحِ خَطِيلٌ" شجاع و بہادر لڑائی میں تیز اور جلدی نیزہ مارنے والا ہوتا ہے۔ "خَطِيلٌ بالمَعْرُوفِ" داود و عیش میں جلدی کرنے والا۔

الأَخْطِيلُ: لمبے اور لٹکے ہوئے کانوں والا۔ بے ہودہ گفتگو والا۔ مَوْنِتٌ خَطْلًا: ج خَطَلٌ.

الخَيْطَلُ: كِتَابٌ: بلی۔ مصیبت۔ عطر فروش۔ نڈی دل۔

خَطْمَةٌ (ض) خَطْمًا وَخَطْمَةٌ: بالخَطْمِ: تکمیل لگانا۔ خَطْمَةٌ بِالكَلامِ: خاموش کرنا۔ مغلوب کرنا۔ خَطْمَةُ الرَّجُلِ: ناک پر مارتا۔ (..... خَطْمًا وَخَطْمًا) القَوْسُ بِالرُّؤْيُ:

کمان پر تانت چڑھانا۔ اخْطَمَ: الخَطْمُ: تکمیل لگانا۔

المَخْطُمُ وَالْمِخْطُمُ: ناک۔ الخَطْمُ: مَمْسٌ: ناک کا اگلا حصہ۔ چوچ

..... مِنَ النَّدَايَةِ: چوپایہ کی ناک اور منہ کے سامنے کا حصہ۔ أَمْرٌ عَظِيمٌ: پہاڑ کی چوٹی۔

الخَطْمُ: مہار۔ تکمیل۔ کمان کی تانت۔ ج خَطْمٌ.

الخَطَامُ: فا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ خَطَامٌ أَمْرٌ بَنِي فَلَانٍ" فلاں بنو فلاں کا قائد ہے اور ان کے معاملات کا منتظم ہے۔

الخَطَامُ: اسمُ مبالغہ۔ مَسْكٌ خَطَامٌ: ناک کو خوشبو سے بھر دینے والی کتوری۔

الأَخْطَمُ: لمبے ناک والا۔ کالا۔ مَوْنِتٌ خَطْمَاءٌ: ج خَطْمٌ.

الخَطْمِيُّ: ایک قسم کی نباتات جو دو اول میں کام آتی ہے۔ واحد (خَطْمِيَّةٌ)

خَطَا (ن) خَطْوًا: قدموں کے درمیان کشادہ کر کے چلنا۔

خَطَاً وَاخْطَى: الرَّجُلُ: قدموں کو کشادہ کر کے چلانا۔ خَطَى غَنَةً الشَّيْءُ: زائل کیا جانا۔

تَخَطَّى تَخَطِيًا وَاخْطَى أَخْطَاءً: ه إلى

<p>آواز کرنا..... الرَّجُلُ قَبِيضُهُ الْجَدِيدُ أَوْ الْقِرطَاسُ: حرکت دینے سے آواز لگانا۔ الخَفِيفُ: وہ شخص جس کی آواز ناک سے ٹپکتی ہوئی معلوم ہو۔ خَفِدَ (ن) خَفِدًا وَخَفِدَانًا وَخَفِيدَ (س) خَفِيدًا: تیز چلنا۔ الخَفِيدُ وَالخَفِيدُودُ: چمگا دریا چمگا در کی مانند ایک دوسرا پرندہ۔ الخَفِيدُ: تیز چلنے والا۔ شتر مرغ۔ ج خَفَادِدُ وَخَفَادِيدُ وَخَفِيدَاتُ: خَفِرَ (ن ض) خَفِرًا وَخَفِيرًا: وہ بہ وَعَلِيهِ: پناہ دینا۔ حفاظت کرنا۔ امن دینا: پناہ دینے کی اجرت لینا۔ خَفِرَ بِالْعَهْدِ: وفا کرنا۔ عہد پورا کرنا۔ (..... خَفِرًا وَخَفِيرًا) فُلَانًا: عہد توڑنا۔ بے وفائی کرنا۔ خَفِرَتِ (س) خَفِرًا وَخَفِيرًا: الْجَارِيَةُ: بہت شرمیلی ہونا۔ صفت (خَفِيرٌ وَخَفِيرَةٌ وَمِخْفَارٌ) خَفِرَهُ: امن دینا۔ حفاظت کرنا۔ شرمندہ کرنا۔ کسی کے ساتھ رہ کر بھیجنا۔ تَخَفَّرَ: بہ: پناہ دینا۔ پناہ لینا۔ رہنے کو کہنا۔ تَخَفَّرَتِ الْجَارِيَةُ: بہت شرمیلی ہونا۔ الْخَفَارَةُ: (بتثنية الخاء) رہبری۔ عہد۔ الْخَفَارَةُ: راہبری کی اجرت۔ الْمَخْفَرُ: پولیس اسٹیشن۔ الْخَفْرَةُ: خَفْرَةَ: کے معنی میں اسم ہے۔ کہا جاتا ہے "هَوِيَ خَفْرَةَ اللَّهِ" وہ اللہ کے ذمہ ہے "هَذَا خَفْرَتِي" یہ میرا رہبر ہے۔ الْخَفِيرُ: پناہ دیا ہوا۔ پناہ دینے والا۔ حمایت وہفاظت کرنے والا۔ ج خَفِرَاءُ: الْخَفْرَةُ: پناہ دینے والا۔ خَفَسَهُ (ن) خَفَسًا: بھٹکانا۔ خَفَسَ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ: تھوڑا کھانا یا پینا۔ الْبِنَاءُ: عمارت ڈھانا۔ خَفَسَ (ض) خَفَسًا وَخَفَسًا: بہت</p>	<p>السَّخِيفَةُ: ہلکا پن (جسم میں ہو یا عقل میں یا عمل میں) السَّخِيفُ: ہلکا پھر تیرا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ خَفِيفُ الرُّوحِ" وہ لطیف اچھی محبت والا ہے۔ و"خَفِيفُ الْقَلْبِ" ذکی "وَخَفِيفُ الْعَقْلِ" بے وقوف "وَخَفِيفُ الظَّهْرِ" کم اولاد والا "وَخَفِيفُ الْيَدِ" پھر تیرا "وَخَفِيفُ الْغَارِضِينَ" دائرہ میں کم بال والا۔ ج أَخْفَسًا وَخَفِيفًا وَخَفِيفًا: السَّخِيفُ: علم عروض کی اصطلاح میں ایک بجز کا نام۔ الخَفِيفُ: ذکی تیز فہم۔ الخَفِيفُ: چری موزوں کا بیج والا۔ الخَفُوفُ: بجز۔ خَفَا (ف) خَفَا الشَّيْءُ: اُكْثِرَ كَرَمِ زَمِينٍ پکنا..... الْبَيْتُ: ڈھا کر گرا دینا..... الْقُرْبَةُ: مٹک کو پھاڑ کر زمین پر بچھا دینا تاکہ پانی جذب نہ ہو۔ خَفَّتِ (ن) خَفُوتًا: الصَوْتُ: پست ہونا۔ صفت (خَفِيفٌ وَخَفِيفَةٌ) (..... خَفَاتًا) اچانک مرنا۔ (..... وَخَفَسًا وَخَفَاتُ وَخَفَاتُ: بِكَلَامِهِ وَيَصُوغُهُ) پوشیدہ رکھنا۔ پست کرنا۔ آہستہ کرنا..... بِالْقِرْبَةِ: آہستہ پڑھنا۔ خَفَاتَةُ: پست گفتگو کرنا۔ تَخَفَّاتُ: جذکلف ضعف و سکون ظاہر کرنا۔ الخَفْفُ: ایک قسم کی نانات۔ السَّخْفَتَانُ: چلتے (جنگ میں پہننے کا ایک لباس) (دخیل) الخَفِيفُ: بے پانی کا بادل۔ زرع خفافت: کمزور پودا جو ابھی لہانہ ہوا ہو۔ خَفِيجَ (س) خَفِيجًا: الْبَعِيرُ: خَفِيجَ كِ بیماری لاحق ہونا۔ الْخَفِيجُ: کمزور۔ ست۔ الْأَخْفِجُ: خَفِيجَ كِ بيماري والا۔ میڑھے پاؤں والا۔ عمود اخفج: میڑھا ستون۔ الخَفِيجُ: ناگلوں میں لڑکھڑاہٹ ہونا۔ خَفِيفٌ خَفِيفَةٌ: الْخَنْزِيرُ وَالضَّبُعُ:</p>	<p>كَذَا: پھاندنا۔ تجاوز کرنا۔ آگے بڑھ جانا۔ الْخَطْوَةُ: چلنے کے وقت دو قدموں کے درمیان کا فاصلہ۔ عوام سے فسخہ کہتے ہیں۔ مسافت۔ کہا جاتا ہے "قَرَبَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْخَطْوَةَ: اللہ تعالیٰ مسافت کو تمہارے لئے قریب کر دیں۔ ج خَطَى وَخَطَوَاتُ وَخَطَوَاتُ وَخَطَوَاتُ: الْخَطْوَةُ: یعنی خَطْوَةُ: خطا کا اسم مرہ..... فی الْمَسَاحَةِ: چھوٹا۔ الْخَطِيَّةُ: گناہ۔ خَطَلًا يَخْطُوْنَ خَطْوًا: لَحْمُهُ: گٹھا ہونا۔ أَخْطَى: الرَّجُلُ: مونا ہونا۔ أَخْطَاهُ: مونا کرنا۔ الْخَطِي: گٹھے بدن والا۔ کہا جاتا ہے خَفَتْ (ض) خَفَاً وَخَفَةً وَخَفَةً: ہلکا ہونا۔ خَفِيفُ الْعَقْلِ: کم مال والا ہونا۔ الْمَطْرُ: کم ہونا..... خَفَاً وَخَفَةً وَخَفُوتًا) إِلَى الْعَدُوِّ: جلدی کرنا..... الْقَوْمُ : جلدی کوچ کر کے کم ہونا۔ خَفَفَ الشَّيْءُ: ہلکا کرنا..... الْحَرْفُ: مشدد نہ کرنا..... الثَّوْبُ: ہار یک بنانا۔ أَخَفَ: کم سامان والا ہونا۔ سبک حال ہونا الرَّجُلُ: جہالت پر اُکسانا۔ عیب لگانا۔ تَخَفَّفَ: چری موزہ پہننا۔ جلدی کرنا۔ تَخَفَّافٌ: ہلکا پھلکا ہونا۔ إِسْتَخَفَّ: ہلکا بھجنا۔ جاہل سمجھنا۔ حق و صواب سے ہٹنا..... هِ الْغَبَاءُ: طرب و نشاط میں ڈالنا..... هِ الطَّرْبُ: إِسْتَخَفَّ بِهِ: حقیر جاننا۔ الْأَخْفُ: ہلکا۔ تھوڑی جماعت۔ کہا جاتا ہے "خَرَجَ فِينِي خَفِيفٌ مِنْ أَصْحَابِهِ" وہ اپنے تھوڑے سے ساتھیوں کے ساتھ نکلا۔ الْخَفُّ: لِلتَّعْبِيرِ وَالنَّعَامِ: اُونٹ اور شتر مرغ کی ناپ۔ چری موزہ۔ ج أَخْفَافٌ وَخَفِيفٌ کہا جاتا ہے "خَفٌّ ضَاحِكٌ" پھیٹا ہوا موزہ۔ الخَفُّ: قدم کا وہ حصہ جو زمین سے لگے۔ سخت زمین۔</p>
---	--	---

الخَافِقَانِ: پورب وچیم۔
 الخَوَالِقُ وَالخَافِقَاتُ: خائفہ کی جمع۔
 جھنڈے۔ خَوَالِقُ السَّمَاءِ: ہوا چلنے کی چاروں سمتیں۔
 الخَافِقُ: مصیبت۔ بہت تیز رفتار گھوڑا یا اُونٹنی۔ وسیع بیابان جس میں سراب چمکتا ہوا معلوم ہو۔
 المَخْفِقُ: ہموار زمین جس میں سراب حرکت کرتا ہوا ہو۔
 المَخْفِقُ: چوڑی تلوار۔
 المَخْفِقَةُ: کوڑا جس سے مارا جائے اور بقول بعض لکڑی کا کوڑا۔
 مَخْفِقُ النَجْمِ: ستاروں کے غروب ہونے کی جگہیں۔
 المَخْفُوقُ: مٹنے۔ پاگل۔ دیوانہ۔
 الخَائِلُ: بھاگنے والا۔
 الخَفْنُ: پیٹ کا ڈھیلا ہونا۔
 الخَفْيَانُ: نڈی۔ واحد (خيفانة)
 الخَفْيَانُ: شتر مرغ کے چوزے۔
 الخَفْيَانُ: ایک قسم کا نرم پتھر۔ یہ استعمال عوام سے ہے صحیح لفظ "الرخفة" ہے۔
 خَفَا (ن) خَفُوا وَخَفُوا: البرقی: چمکتا۔ الشی: ظاہر ہونا۔
 خَفَى (ض) خَفِيًا وَخَفِيًا: الشی: ظاہر کرنا۔ کہا جاتا ہے "خَفِيَ الْمَطَرُ الْفَارَازَ" بارش نے جو ہے کوبل سے نکال دیا۔ چھپاتا۔ پوشیدہ کرنا۔ (خد)
 خَفِي (س) خَفَاءَ وَخَفِيَةً وَخَفِيَةً: پوشیدہ ہونا۔ صفت (خَافٍ وَخَفِيٌّ)
 خَفَى وَخَفِي: الشی: پوشیدہ کرنا۔ چھپاتا۔ کہا جاتا ہے "أَخْفَى عَنَّا" ہمارے متعلق جو تم سے دریافت کرے اس سے ہماری حالت چھپاؤ۔ وَأَخْفَى الرَّجُلُ: چھپنا۔ پوشیدہ ہونا۔ أَخْفَى الشی: سرپوش بنانا۔
 تَخَفَى وَاسْتَخْفَى: چھپنا۔ پوشیدہ ہونا۔
 اِخْتَفَى: الشی: ظاہر کرنا۔ نکالنا۔ مِنْ فُلَانٍ: چھپنا۔ الشی: کھودنا۔

میں ہے
 خَفَعَ (ف) خَفَعًا: بھوک وغیرہ سے چکرا کر گرنا۔ خَفَعَهُ بِالسَّيْفِ: تلوار سے مارنا۔ (خَفَعًا وَخَفَعَانًا) السُّرُ: بلنا۔
 أَخْفَعَهُ: الجُوعُ: چکرا کر گرا دینا۔
 اِنْخَفَعَ: بے ہوشی کے قریب ہونا۔
 المَخْفُوعُ: دیوانہ۔
 خَفَقَهُ (ن ض) خَفَقًا: بِالسَّيْفِ: آہستہ تلوار سے مارنا۔ السُّعْلُ: جوتے سے آواز لگانا۔ خَفَقًا وَخَفُوقًا وَخَفَقَانًا) الفُؤَادُ: دھڑکننا۔ الرَّأْيَةُ: پیڑ پھڑانا۔ السُّرُوقُ: کوندنا۔ (خَفُوقًا) النَجْمِ: غروب ہونا۔ اللیل: اکثر حصہ گزر جانا۔ الطائِرُ: اڑنا۔ الرَّجُلُ فِي الْبِلَادِ: سفر کرنا۔
 المکان: خالی ہونا۔
 أَخْفَقَ: مضطرب ہونا۔ حاجت میں ناکام رہنا۔ محروم ہونا۔ القومُ: قوم کے توشہ کا ختم ہو جانا۔ بِرَأْسِهِ: اوگھ سے سر ہلانا۔
 بِشَوْبِهِ: کپڑے کو حرکت دے کر اشارہ کرنا۔
 النَجْمِ: غروب ہونا۔ الطائِرُ: بازو پیڑ پھڑانا۔ ہ: پچھاڑنا۔
 اِخْتَفَقَ: العَلَمُ أَوِ السَّرَابُ: جھنڈے کا یا سراب کا بلنا۔
 الخَفِيقَةُ: خَفَقٌ: کا اسم مرہ۔
 الخَفِيقَةُ: کوئی چیز جس سے مارا جائے۔ جیسے تسمہ وغیرہ۔
 الخَفَقُ وَالخَفِيقَةُ وَالخَفَقُ وَالخَفِيقَةُ: پتلی کر کا گھوڑا۔ الخَفِيقَةُ أَوْ خَفِيقَةُ: میں تان تانیٹ کی نہیں مبالغہ کی ہے۔ رَجُ خَفِيقًا وَخَفِيقَاتٍ وَخَفِيقَاتٍ
 الخَافِقِ: فَا۔ مَكَانٌ خَافِقِيٌّ: انیس سے خالی جگہ۔ رَجُلٌ خَافِقٌ الْعَيْنِ: دھنسی ہوئی آنکھ والا۔
 الخَفَاقُ: اسم مبالغہ۔ خَفَاقُ الْقَدَمِ: وہ شخص جس کے قدم کا گلا حصہ چوڑا ہو۔
 الخَفَاقَةُ: ذُبر۔ اِمْرَأَةٌ خَفَاقَةٌ الْحَشَا: پتلی کر والی عورت۔

بذربائی کرنا۔
 اِنْخَفَسَ: المَاءُ: پانی کا تنغیر ہونا۔
 تَخَفَسَ: الرَّجُلُ: لیٹنا۔
 شَرَابٌ (مَخْفَسٌ) جلد مت کرنے والی شراب۔
 خَفَسَ (ن) خَفَسَابَهُ: پھینکنا۔ البناء دُھانا۔ خَفَسَ (س) خَفَسًا: کمزور ہونا۔
 پیدائشی کمزور نظر والا ہونا۔ تَنَكَّ آكُھُ وَاللَا ہونا۔ رَتُو تَدُ وَاللَا ہونا۔ صفت (خَفِسٌ وَأَخْفَسٌ)
 خَفَسَ: الْبَدَنُ: بدن کا کمزور ہونا۔
 البناء: ثَمَارٌ دُھانا۔ الرَّجُلُ: پچھاڑ کر چل دینا۔ بِالْأَرْضِ: زمین سے چمٹنا۔
 الخَفَاشُ: چمگاڑ۔ رَجُ خَفَافِيشُ.
 خَفَضَهُ (ض) خَفَضًا: پست کرنا۔
 الصَّوْتُ: آہستہ کہنا۔ الْكَلِمَةُ: زبردینا۔ خَفَضَ الصَّوْتُ: آہستہ ہونا۔ بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ الرَّجُلُ: مرنا۔ الْاِبِلُ: آہستہ چلنا۔ الْجَارِيَةُ: ختمہ کرنا۔
 خَفَضَ (ك) خَفَضًا: العَيْشُ: آسودہ خوشحالی ہونا۔ صفت (خَفِيفٌ وَخَفِضٌ وَخَافِضٌ وَخَفُوضٌ)
 خَفِضَ: الشی: آسان کرنا۔ نَزَمَ: نازم کرنا اور اسی سے ہے "خَفِضَ عَنكَ" یعنی اپنے اوپر نرمی کرو۔
 تَخَفَضَ: الْاِمْرُؤُ: آسان ہونا۔
 اِنْخَفَضَ: بِلَدِي: بلندی کے بعد پست ہونا۔
 الصَّوْتُ: پست ہونا۔
 اِخْتَفَضَ: السَّعْرُ: بھاؤ گرنا۔
 الخَافِضُ: فَا۔ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنی میں سے ہے اور کہا جاتا ہے "هُوَ خَافِضُ الطَّيْرِ وَخَافِضُ الْجَنَاحِ" وہ باوقار اور تحمل المزاج ہے۔ مَوْنَتْ خَافِضَةٌ: الخَافِضَةُ: لڑکیوں کی ختمہ کرنے والی۔
 الخَفِضُ: مَعْسُ۔ (..... وَالخَفِيفُضَةُ) آسودگی۔ فَرَاثِيٌّ كِي زَنْدَكِي۔ کہا جاتا ہے "هُوَ فِي خَفِضِ مِنَ الْعَيْشِ" وہ آسودہ زندگی

الخففاء: مفس - پوشیدگی - کہا جاتا ہے "بوخ الخففاء" یعنی معاملہ واضح ہو گیا - پرودہ - چادر جو لباس کو چھپا لے - پوشیدہ چیز - نج اخفیة - اخفیة الکبریٰ: آنکھیں - اخفیة الزهرة: کلی کے غلاف - الخفی: لوگوں سے علیحدہ - مخفی جگہ میں رہنے والا - کہا جاتا ہے "رجل خفی البطن" پیچھے ہوئے پیٹ کا مرد - الخافی والخافیاء: جن - الخافیة: الخافی کا مؤنث - پوشیدہ چیز - پوشیدگی - جن - نج خسواف اور کہا جاتا ہے "ارض خافیة" جنوں کی سرزمین - الخوافی: پرندے کے بازوؤں کے نیچے چھپے ہوئے پر اور امثال عرب سے ہے "لیس القوادیم کالخوائی" تنخ پر چھوٹے پروں کی مانند تھیں - الخفیة الخفی: کا مؤنث - گنجان - جھاری - کنواں جس میں پانی ہو - نج خفایا و خفیات کہا جاتا ہے "یہ خفیة" اس پر کچھ جنوں دو یوگی کا اثر ہے - المخیفی: فنا - کنن چور - خفت (ض) خفتا و خفتقا و خفتقا - القدر: جوش سے سنسانا - خفت السیل فی الارض: گہرا گڑھا کر دینا (..... و آخفت) البکرة: چرئی کے سوراخ کا چوڑ ہونا - الخفت نج اخفاق و خقوق و الاخقوق و الاخقیس) زمین کا شگاف - تالاب جبکہ خشک ہو جائے - خاقان: ترکوں کے بادشاہ کا لقب - نج خواقین کہا جاتا ہے (خفتنه) القوم علی انفسہم: لوگوں نے اس کو اپنا بادشاہ بنا لیا - خحل (نض) خلاً و خلولاً: لحمه: ڈبلا ہونا - کم گوشت ہونا (خلام الشی: سوراخ کرنا - الفصیل: زبان کو چیر کر دودھ سے روکنے کے لئے لکڑی ڈالنا..... فی ذغابہ: خاص کرنا -

خحل: الیہ محتاج و فقیر ہونا - خحل العصیر: کھانا ہونا - سرکہ بننا..... العصیر: سرکہ بنانا..... الامسان: خلال کرنا - خحل فی ذغابہ: خاص کرنا - خالہ مخاللة و خلالا و خلالاً: دوستی کرنا - بھائی بندی کرنا - اخل: محتاج ہونا..... بالشی: کوتاہی کرنا - چھوڑ دینا..... الوالی بالنعور: لشکر کم کر دینا..... بسر کوزہ: مرکز کو چھوڑ دینا..... بقومہ: غائب ہو جانا..... بالرجل: پورا حق نہ دینا..... بالامر: برے طریقے سے انجام دینا..... بگاڑ دینا..... اخلہ اللہ: محتاج کر دینا - اخل بالرجل: محتاج ہونا - تخلل القوم: قوم میں مل جانا..... ہ بالرمح: بیابے نیزے سے مارنا..... الشی فیہ: نفوذ کرنا..... المطر: مخصوص جگہ میں برسا..... الرجل: خلال کرنا - اخل الامر: کمزور و فاسد ہونا..... عقلہ: خراب ہونا..... الیہ: محتاج ہونا..... العصیر: سرکہ بنانا..... لحمه: الاغری کی وجہ سے کم ہونا..... الرجل: اپنے لئے سرکہ بنانا - تخالوا اخلالاً: باہم دوستی کرنا - الخحل: مفس - سرکہ - ریگستانی راستہ - ڈبلے جسم والا - لاغر - مونا - بوسیدہ کپڑا - کپڑے کی بچھن - نج اخل و خلال: کہا جاتا ہے "قاله خحل ولا تخمر" اس کے پاس نہ جید ہے نہ روی "ولست من هذا الامر فی خحل ولا تخمر" مجھ کو اس معاملہ کے نہ خیر سے مطلب نہ شر سے کام - أم الخحل: شراب - الخحل و الخحل: دوست - مؤنث خحل و خلة: نج اخلال - الخحل: سستی - فساد - رائے میں انتشار و پراگندگی - شگاف - دراڑ - نج خلال - الخحل: دانتوں کے درمیان خوراک کا بقیہ واحد (خلة) کہا جاتا ہے "هو خحل القوم" وہ قوم کے درمیان ہے -

الخلة: عادت - سوراخ - تھوڑا سرکہ - تھوڑی سی کھٹی شراب - حاجت - محتاجی - نج خلال و خحل: الخلة: ہلکی پھلکی عورت - الخلة: گھاس جس میں مٹھاس ہو - نج خحل: دوستی - عادت - بیوی - محبوبہ - دوست (واحد شتیہ جمع مذکر مؤنث سب کے لئے) تم کہتے ہو "هو وھی وھن خلتی" الخلة: دوستی - بھائی بندی - تلوار کی میان جس پر چڑا منڈھا ہوا ہو - چڑا جو منتشر ہو - نج خحل و خلال الخلال: سوراخ کرنے کا آلہ - لکڑی جو اونٹ کے پیچے کی زبان میں لگا دی جاتی ہے تاکہ دودھ نہ پی سکے - نج اخللة (..... و الخلاله) دانت صاف کرنے کا تنکا - الخلال و الخلاله: دانتوں کے درمیان خوراک کا بقیہ - و خلال السیار: شہروں کا ارد گرد - گھروں کے درمیان - کہا جاتا ہے "هو خلالہم" وہ ان کے درمیان ہے - الخلاله و الخلاله: بچی دوستی - الخلیل: خالص دوست - نج اخلاء و خلان: لاغر بدن - فقیر - مؤنث خلیلہ نج خلیلات و خلالل: شی خلیل: چھدی ہوئی چیز - الخلال: سرکہ بیچنے والا - سرکہ بنانے والا - الاخل محتاج - دوسرے سے زیادہ محتاج - رجل (مخل) محتاج مرد - خلا (ف) خلوة ۱: جگہ سے نکلنا - خلاات الناقہ: اڑ جانا - خصالاً مخاللاً: القوم: ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری میں مشغول ہو جانا - خلیہ (نض) خلیاً بظفرہ: خراش لگانا زخمی کرنا..... السبع القرینة: چنگل سے پکڑنا..... الفسی: جوان کے دل کو چھین لینا اور تفتہ میں مبتلا کرنا - خلیہ (ن) خلیاً و خلالاً و خلالہ و خالیہ مخاللة و خلیہ و اخلتہ: نرم کلامی سے

فریفتہ کرنا۔ صفت (خالب و خلوب و خلّاب و خلّوت) مؤنث خالِبَةٌ و خَلِيَّةٌ و خُلُوبٌ و خَلَابَةٌ و خَلِيْوَتٌ۔

خلیت (س) خلبا، المرأة: بے وقوف ہونا۔ صفت خلباء۔

أخلب الماء: کچھڑا لیا ہونا۔ صفت (مخلب) استخلبه بظفره: خراش لگانا۔

الخلب: بگڑے اور پر کی جھلی۔ انگور کے پتے۔ ج: الخلاب (والمخلب) پچھل۔ ج: مخلاب، المخلب: دارنق۔

الخلب والخلب: کچھڑ۔ کچھڑ کے درخت کا گودا۔ کچھڑ کے درخت کی چھال اور اس کی بیج ہوتی رہی۔

الخلب: بے بارش کا بادل۔ والسرفی الخلب وسرفی الخلب: بے بارش کے بادل کی بجلی۔ "انما انت كسرفی خلب" اس شخص کے حق میں بولتے ہیں جو وعدہ کرے اور پورا نہ کرے۔

الخلیبی: فریب۔ المخلب: من الثیاب: بہت نقش و نگار والا کپڑا۔

خلبسه او خلبس قلبه: فریفتہ کرنا۔ الخلابس: نرم بات۔

الخلابیس والخلابیس والخلابیس: باطل و جھوٹی باتیں۔ السخلابیس: کہینے و فرومایہ لوگ۔

خلبص: بھاگنا۔ خلبجہ (نض) خلبجا: کھینچنا۔ کھینچ کر نکالنا۔

..... ہ بغینہ۔ آنکھ سے اشارہ کرنا۔ الشی حرکت دینا۔ ہ بالسیف: تلوار سے مارنا۔ الولد: دودھ چھڑانا۔

الامر: مشغول کرنا۔ کہا جاتا ہے "خلبته أمرؤ الدنيا" اس کو دنیا کے وعدوں نے پھنسا لیا۔

خلبجت (نض) خلبجا و خلبوجا و خلبجانا، العين: پھڑکنا۔

خلج (س) خلبجا: چلنے یا کھنکنے کی وجہ سے ہڈیوں کا درد کرنا۔ الشی: بگڑنا۔ خراب ہونا۔

خالج: قلبہ امر: کسی معاملہ کا دل کو سوچ بچار میں ڈال دینا۔

أخالج: حاجیبہ: مکانا۔ تخلج: لڑکھانا۔ بلنا: جھکنا۔ الشی: کھینچنا۔

تخالجته الهموم: کراہتا ہے تخالج فی صدري شی: یعنی میرے دل میں کچھ غلچان ہوا۔

أخالج: جھڑ جانا۔ العين: بچوں کا غیر ارادی طور پر پھڑکنا۔ الشی: فی صدره: غلچان ہونا۔ الشی: کھینچ کر نکالنا۔

الولد: دودھ چھڑانا۔ أخالج: من بینهم: مرنا۔ الخالج: قا۔ موت۔

الخلج: کاپنے والے بدن کے لوگ۔ مشکوک نسب کے لوگ۔ الاخلج: رسی۔

الخلیج: من البحر: کھاڑی۔ ندی۔ چھوٹی کشتی۔ رسی۔ ج: خلجان و خلج۔ خلیجا: النہر: دریا کے دونوں جانب۔

الخلج: ایک قسم کی دھاری دار چادر۔ الخلوج: اونٹنی جس کا دودھ بچہ جدا کرنے کی وجہ سے کم ہو گیا ہو۔ تیز رو اونٹنی۔

پراگندہ بادل۔ بہت پانی والا بادل۔ الاخلیج: ایک قسم کی گھاس۔ من الخیل: تیز رفتار گھوڑا۔

خلخل: العظم: گوشت چھڑا کر صاف کرنا۔ المرأة: یازیب بنانا۔ تخلخل: الشی: کسی چیز کے اجزاء کا ملا ہونا۔

نہ ہونا۔ سچ میں خالی ہونا۔ من حکانہ: جگہ سے بلنا۔ المرأة: یازیب بننا۔ الثوب: بوسیدہ ہونا۔

الخلخال ج: خلخال و الخلخل و الخلخل: ج: خلخال: یازیب۔

ثوب (خلخال و خلخل) باریک کپڑا۔ المخلخل: پنڈلی یازیب پہننے کی جگہ۔ عسکر (مخلخل) کبھری ہوئی فوج۔

خلد (ن) خلودا: ہمیشہ رہنا۔ (.....) خلدا و خلودا: باوجود زیادتی عمر کے کمزوری و بڑھاپا نہ آنا۔ صفت (خالد و مخلصد و مخلصد و مخلصد)۔ الشی المکان و بالمکان: اقامت کرنا۔ الی الارض: چھٹنا۔

خلد و اخلد: الی المکان و بالمکان: اقامت کرنا۔ ہ: ہمیشہ کے لئے رکھنا۔

أخلد بصاحبه: ہمیشہ ساتھ رہنا۔ اخلد الیہ: مائل ہونا۔ جھکنا۔

الخلد: بیٹھکی۔ دوام۔ بقا۔ الخلد: چھچھوند۔ مناجذ الخلد: کنگن۔ بانی۔ ج: خلدۃ۔

الخلد: دل۔ ہمیشہ رہنے والا۔ الخلدۃ: بانی۔ کنگن۔ الخالد: قا۔ ابو خالد: کتا۔

الجزائر الخالدات: جزائر کناری۔ السخوالد: دیگ دان کے پائے۔ پہاڑ۔ پتھر۔

الخلو: ایک قسم کی نباتات۔ بقول بعض لوبیا یا ماش۔ خلنس (ض) خلنسا و خلینسی: الشی: فریب سے جھپٹا مار لینا۔

أخلس: البیث: سبز اور خشک ملا جلا ہونا۔ الراس: بالوں کا پھڑکی ہونا۔ صفت خلنس و خلینس و مخلص: اخلست الارض: کچھ ہریالی ہونا۔

خالسة مخالسة: جلدی کرنا۔ تخلس: القوم الشی: ایک دوسرے سے چھیننا۔ کہا جاتا ہے "هتسا يتخالسان انفسهما" وہ دونوں ایک دوسرے کے قتل کا ارادہ کرتے ہیں۔

أخلس: الشی: فریب سے چھپتا مار لینا۔ القاری: الحركة: بڑھتے پڑھنا۔ اس کے

مقابلہ میں اشباع ہے جس کے معنی پر پڑھنے کے ہیں کہ جس سے بجائے حرکت کے حرف علت پیدا ہو جائے۔

الخُلْسَةُ: جھپٹ۔ جھپٹی ہوئی چیز۔ مناسب فرصت اور اسی سے ہے "الخُلْسَةُ سَرِيعَةُ الْفُتُورِ بِطَيْبَةِ الْعَوْدِ" فرصت جلد ختم ہو جانے والی اور درمیان میں آنے والی ہے۔

الغَيْبُ وَالْغَيْبُ: چونکہ بہادر۔ الخَيْبَةُ: درندے کے منہ سے چھڑایا ہوا جانور جو زخم کرنے سے پہلے مر جائے۔

الْخَيْبِيُّ: وہ بچہ کہ جس کے ماں باپ میں سے ایک گورا ایک کالا ہو۔

خَلَصَ (ن) خَلُوصًا وَخَلَاصًا: خالص ہونا مِنَ الْهَلَاكِ: نجات پانا۔ مَحْفُوظًا هُنَا الْمَاءِ مِنَ الْكَيْدِ: صاف ہونا الْإِلٰهِ الْمَكَّانِ وَبِالْمَكَّانِ: پہنچنا مِنَ الْقَوْمِ: جدا ہونا۔

خَلِصَ (س) خَلَصًا. اللَّخْمُ: گوشت میں بڑی کا چورا ہونا۔

خَلَصَهُ. مَنْ كَذَا: نجات دینا۔ خَلَصَ الشَّيْءُ: صاف کرنا۔ خَالِصًا كَرَامًا: خلاصہ لینا۔ خَلَصَ الرَّجُلُ: مثل شی دینا۔

خَالَصَهُ مُخَالَصَةً فِي الْعَشْرَةِ أَوْ الْمَوْدَّةِ: خلوص برتا۔ خَالَصَهُ الْوَدَّ: خالص دوستی کرنا۔

تَخَالَصًا: باہم خالص دوستی کرنا۔ أَخْلَصَ. الشَّيْءُ: خلاصہ لینا۔ چن لینا۔

..... هِ اللّٰهُ: عیوب سے خالی کرنا الطَّاعَةِ وَفِي الطَّاعَةِ: بے نام و نمود کے کرنا لَهُ الْحَبِّ أَوْ الْقَوْلِ: کھوت سے خالی کرنا۔

تَخَلَّصَ. مِنْهُ: نجات پانا۔ جدا ہونا مِنْ كَذَا إِلٰهِ كَذَا: منتقل ہونا۔

إِسْتَخْلَصَهُ: چن لینا۔ الشَّيْءُ مِنْهُ: اپنے لئے حاصل کرنا۔

الْخَلَاصُ: مصلح (..... وَالْإِخْلَاصُ) کھوت سے خالی کیا ہوا۔ (سونا چاندی وغیرہ) الْخُلَاصَةُ وَالْإِخْلَاصَةُ: خالص سچی۔ پھر اس

کا عام طریقہ سے استعمال ہر اس چیز پر ہونے لگا جو دوسرے سے خالص کر لیا گیا ہو اور اسی سے ہے "خُلَاصَةُ الْكَلَامِ"۔

الْإِخْلَاصُ وَالْإِخْلَاصَةُ: کھن جو تجتھت سے جدا کر لیا جائے۔ "كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ". لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ

الْخُلُوصُ: ہر سفید چیز۔ الْإِخْلَاصُ: حج۔ خُلُوصًا وَ(الْخُلُوصَانُ) یاریا

خالص دوست۔ خُلُوصَانُ: مفرد و جمع دونوں کے لئے مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے "هُوَ خُلُوصَانِي وَهُوَ خُلُوصَانِي"۔

الْخَالِصُ: قا۔ بے کھوت۔ صاف رنگ۔ کہا جاتا ہے "هَذَا تَوْبٌ خَالِصٌ" یہ صاف رنگ کا کپڑا ہے۔ حَجَّ خُلُوصًا.

الْخَالِصَةُ: خالص کا مؤنث۔ کہا جاتا ہے "هُوَ خَالِصِي" وہ میرا دوست ہے و "هَذَا الشَّيْءُ خَالِصَةٌ لَكَ" یہ تمہارے لئے مخصوص ہے۔

الْخُلُوصُ: رُت جو کھجور سے تیار کی جائے۔ تَجْتِثُ جو خالص گھی کی تہ میں بیٹھ جائے۔ بِالْأَلِيّ.

الْمُخْلِصُ: قا۔ نجات دہندہ۔ خَلَطَ (ض) خَلَطًا وَخَلَطًا. الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: ملا نا۔ کہا جاتا ہے "خَلَطَ الْمَرِيضُ" بیمار نے مضر چیزیں کھائیں و "خَلَطَ فِي الْكَلَامِ" اس نے کجواں کی۔ خَلَطَ فِي الشَّيْءِ: خراب و فاسد کرنا۔

أَخْلَطَ. الْفَرَسُ: دوڑنے میں کوتاہی کرنا۔ خَالَطَهُ مُخَالَطَةً وَخَلَطًا: ملاپ کرنا۔ ساتھ رہنا السَّدَاءُ فَلَانَا: بیماری لاحق ہونا۔ خُوْلَطَ. فِي عَقْبِهِ: محبوب الخواص ہونا۔

إِخْتَلَطَ: ملا نا الظَّلَامُ: تاریکی کا چھا جانا الرَّجُلُ: خراب عقل والا ہونا۔ الْفَرَسُ: دوڑنے میں کوتاہی کرنا۔ تَخَالَطُوا: باہم ایک دوسرے کے ساتھ گتہ

جانا۔

الْخُلُوطُ: مصلح۔ لوگوں سے ملنے والا اور چالپوسی کرنے والا۔

الْخُلُوطُ: میزھا تیر۔ میزھی کمان۔ بے وقوف۔ کہا جاتا ہے "هُوَ خُلُوطٌ بَيْنَ الْخِلَاطَةِ" وہ بے وقوف ہے جس کی بے وقوفی ظاہر ہے۔ ہر وہ چیز جو دوسری چیز سے

ملے۔ حَجَّ الْخِلَاطِ: حرامی اور کہا جاتا ہے "رَجُلٌ خِلُوطٌ وَمَلُوطٌ" مخلوط نب کا مرد۔ الْإِخْلَاطُ: ملی جلی قسمیں۔ اَخْلَاطُ الْجَسَدِ فِي عُرْفِ الْأَقْدَمِينَ: خون۔ بَلْغَمٌ۔ سودا۔ صَفْرًا وَ اَخْلَاطُ الْقَوْمِ: قوم کے معمولی اور گھٹیا درجہ کے لوگ۔

الْخِلِيطُ: بے وقوف۔ الْخِلِيطَةُ: شرکت۔ الْإِخْلَاطُ: آدمیوں اور جانوروں کا ملا جلا ہونا۔

الْخِلَاطَةُ: عقل کی خرابی۔ بے وقوفی۔ الْخِلِيطُ: حَجَّ خُلُوطًا وَخُلُطًا: خلط ملط رکھنے والا۔ شریک۔ وہ لوگ جن کا معاملہ ایک ہو۔ شوہر۔ پڑوسی۔ سہمی۔ بھوسہ ملی ہوئی مٹی۔ خِلِيطُ الرَّجُلِ: میل جول رکھنے والا۔ کہا جاتا ہے "خِلِيطٌ مِنَ النَّاسِ" معمولی اور گھٹیا درجہ کے لوگ۔

الْخِلِيطِيُّ وَالْخِلِيطِيُّ: معمولی اور گھٹیا درجہ کے لوگ۔ کہا جاتا ہے "وَقَعُوا فِي خِلِيطِي" وہ لوگ گڑبڑی میں پڑ گئے۔

الْمِخْلَاطُ وَالْمِخْلَاطُ: بہت میل جول رکھنے والا۔ جَمَلٌ (مُخْلِطٌ) موٹا اونٹ کہ جس کی چربی گوشت کے ساتھ مل گئی ہو۔ خَلَعَ (ف) خَلَعًا. الشَّيْءُ: اُتَارَنَا تَخَيَّفَهُ أَوْ رَجَعَهُ: عضو کو جگہ سے ہٹا دینا الْقَائِدُ: معزول کر دینا الدَّابَّةُ: ہندسے سے آزاد کر دینا الْعَدَاةُ: اپنے مرتبہ کو گرا دینا (کنایہ ہے بے حیائی سے) عَلَيْهِ تَوْبًا: خلعت دینا۔ خَلَعَ الشَّجَرُ: پتے چھڑنا نئے پتے لگانا۔

خَلَعَ (ف) خَلَعًا وَخَلَعًا. ابْنَهُ: عاق کرنا۔

صفت مفعولی (خلیع) زمانہ جاہلیت میں ایسا کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے بیٹا باپ کے جرم میں ماخوذ نہیں ہوتا تھا۔
 امرتہ: مال کے عوض میں طلاق دینا
 صفت مفعولی (خالع) اسم (المخلعة)
 خلیع. المیث: کفن جدا کیا جانا۔
 خلیع (ک) خلاعة: خواہشات نفسانی کا تابع ہونا۔ بے حیاء ہونا۔
 خالِعٌ مُخَالِعَةٌ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ أَوْ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا: مال کے شرط پر جدائی اختیار کرنا۔
 خَالِعُ الرَّجُلِ: جو اکھلیتا۔
 خَلَعَهُ: جدا جدا۔ خاص کرنا۔
 أَخْلَعُ السَّبِيلَ: خوش میں دانے بیٹھنا۔
 الشَّجَرُ: نئے پتے نکلنا۔
 تَخْلَعُ: فسی المَشِي: چلنے میں پیروں کو علیحدہ علیحدہ رکھنا۔ فسی الشَّرَابِ: منہمک ہونا۔ القوم: چپکے سے کھسک کر چلا جانا۔
 تَخَالَعُ الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ: مال پر جدائی اختیار کرنا۔ القوم: باہم عہد توڑنا۔
 اِنْخَلَعَ: ہٹ جانا۔ اکھڑ جانا۔ زائل ہو جانا۔
 اِخْتَلَعَ: الشی: نکال لینا۔ کھینچ لینا۔
 اِخْتَلَعُوا الرَّجُلَ: مال لے لینا۔ اِخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا: مال دے کر جدائی اختیار کرنا۔ اسم (المخلعة)
 الخلیعة: کپڑے جو عزت کے طور پر ملیں۔ اتارا ہوا کپڑا۔ عمدہ مال۔
 الخلیعة: عمدہ مال۔ کمزوری۔ کہا جاتا ہے "فیہ خلعة" اس میں کمزوری ہے۔
 الخلاع: ایک قسم کی دیوانگی جو انسان کو لاحق ہوتی ہے۔ الخلیع: بے حیائی کا کام کر کے اپنے مرتبہ کو گرا دینے والا۔ معزول شدہ۔
 خویث۔ جوئے باز۔ نِخْلُ خَلْعَاءَ: بھیڑیا۔ بھوت۔ ثوبٌ خلیعٌ: بوسیدہ کپڑا۔
 الخلیعة: بے حیائی۔ الخلیع: کاموث۔ من مانی عورت۔
 الخلوئع: بے وقوف۔ ایک قسم کا کھانا جو

آنے سے تیار کیا جاتا ہے۔ سرکہ میں جوش دیا ہوا گوشت۔ بھیڑیا (.....) (والخیلع) خوف جو دل پر طاری ہو۔ الخلیع: بے آستیں کی قمیص۔ زَجْلٌ خلیع: کمزور مرد۔ الخلیع: منع..... من الرجال: کمزور ست۔ اکھڑے ہوئے جوڑوں والا۔ وہ شخص جس کا سارا بدن یا کچھ بدن بے حس ہو۔
 الخلقاء والخلع: بیجو۔
 خلیفہ (ن) خلافة و خلیفی: جانشین ہونا۔ رثہ فی قومہ: جانشین بنانا۔ الرجل: قائم مقام ہونا (.....) خلیفاً و خلیفةً الفاکہة بعضها بعضاً: ایک دوسرے کے قائم مقام ہونا (.....) خلافةً و خلوفاً الغلام: بے وقوف ہونا۔ صفت (خالیف خلیفة)..... عن خلقی ابیہ: باپ کے عادات و اخلاق سے بدل جانا (.....) خلوفاً و خلوفاً: ہم الصائم: منہ کی بو کا متغیر ہونا (خلف (ض) خلیفاً) الرجل لاهلہ: اپنے گھر والوں کے لئے پانی لانا۔ المیث: پچھلے حصہ میں ستون لگانا۔
 آہاہ: باپ کے قائم مقام ہونا۔ کہا جاتا ہے "خلف اللہ لک و علیک" اللہ تعالیٰ تم کو بدل دیں۔ الشوب: مرمت کرنا۔
 عن أصحابہ: پیچھے رہ جانا۔ فلانا: پیچھے سے پکڑنا۔ جانشین ہونا اور کہا جاتا ہے "خلف لہ بالسیف" اس کے پیچھے سے آ کر اس نے اسے تلوار ماری۔ "خلف لہ بخیر او شر" اس کی غیر موجودگی میں اس نے اس کا بھلا یا برا ذکر کیا۔
 خلیف (س) خلیفاً: بائیں ہاتھ ہونا۔ بھیڑگا ہونا۔ بے وقوف ہونا۔ خلیفت الناقة: حاملہ ہونا۔ صفت (خلیفة)
 خلیف. الشی: پیچھے چھوڑنا۔ مؤخر کرنا۔
 ہ: جانشین بنانا۔
 خلیفہ خلافاً و مخالفةً: ناموافق کرنا۔ خلیف عن کذا: پیچھے رہنا۔ بین رجلینہ آگے پیچھے کرنا اور تم کہتے ہو "خالیقی عن"

کذا" جبکہ وہ اعراض کر رہا ہو اور تم قصد کر رہے ہو اور "خالقی الی کذا" جبکہ وہ قصد کر رہا ہو اور تم اعراض کرتے ہو۔
 أخلف: یوکا بدلنا یا خراب ہونا۔ الشوب: مرمت کرنا۔ لاهلہ: اپنے لوگوں کے لئے پانی کھینچنا۔ و غده و بوعغده: پورا نہ کرنا۔
 ہ: وعدہ خلاف پانا۔ الغیث: امید کے بعد نہ برسا۔ الشجرة: کٹی ہوئی شاخ کے بدلے دوسری شاخ نکلنا۔ الطائر: پہلے پروں کے بعد دوسرے پر نکلنا۔
 الغلام: قریب البلوغ ہونا۔ لنفسہ: ایک چیز ضائع ہونے کے بعد دوسری کو اس کے قائم مقام کرنا۔ ہ: پیچھے ڈالنا۔ الدواء فلانا: کمزور کرنا۔ اللہ علیہ: ضائع شدہ کا بدلہ دینا۔
 تخلف. عنهم: پیچھے رہنا۔ القوم: پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جانا۔
 تخالفوا و اختلفوا: اختلاف کرنا۔
 ناموافق ہونا۔ اختلفہ: جانشین ہونا۔ پیچھے کرنا۔ پیچھے سے پکڑنا۔ و اختلف الی مکان: بار بار جانا۔
 استخلفہ: اپنا جانشین بنانا۔ فلانا من فلان: قائم مقام کرنا۔ استخلفت الارض: گرمی کی گھاس کو اگانا۔ استخلف الرجل لاهلہ: اپنے لوگوں کے لئے پانی یا بیٹھاپانی لانا۔ پانی پانا۔
 الخلیف: مصل۔ ایک گروہ جو ایک گروہ کے بعد ہو اور اسی سے ہے "هؤلاء خلف سؤء": ان لوگوں کے حق میں بولا جاتا ہے جو اپنے سے زیادہ کے ساتھ لاحق ہوں۔ ردی قول اور امثال عرب میں ہے "سکت ألفا و نطق خلفا" وہ ہزاروں باتوں سے خاموش رہا اور بولا تو ردی بات۔ کلہاڑی کی دھار۔ بڑا کلہاڑا۔ بے نفع شخص۔ پہلو کی سب سے چھوٹی پسی۔ ج خلوف اور خلف قدم: کی نقیض ہے۔ بمعنی پیچھے و بعد از۔
 الخلیف: وعدہ پورا نہ کرنا۔ خلاف مفروض

خلیف: کی جمع۔ قیاسُ الخلیف: منطقیوں کی اصطلاح میں ایک نتیجے کے امتناع سے دوسرے کے ثبوت پر استدلال کرنا۔

الخلیف: مختلف۔ اوشی کے تھن کا سرا۔ موسم

بہار کی گھاس۔ ج الخلیف و خلیفة الخلیفان: دو مختلف صفات والے۔ کہا جاتا ہے "لہ و لڈان خلیفان" اس کے دو بچے ہیں

جن میں سے ایک زیرک اور دوسرا بے وقوف یا ایک لمبا اور دوسرا پست قد سے اور کہا جاتا ہے "وولدت الناقۃ خلیفین" اوشی نے ایک سال نر اور دوسرے سال مادہ بچے دیئے۔ ذات الخلیفین: کلہاڑا جس کے دو سرے ہوں۔ ج ذوات الخلیفین۔

الخلیف: ولد یا ولد صالح۔ بدلہ۔ کہا جاتا

ہے "فی ہولاء القوم خلیف من مضمی" یعنی اس قوم میں گزشتہ لوگوں کے جانشین ہیں۔ وہ چیز جو کسی کے بعد حاصل ہو۔ کہا جاتا

ہے "اغطاک اللہ خلیفاً من تلق" اللہ تعالیٰ تم کو تلف شدہ چیز کا بدلہ دیں۔ نسل۔

اولاد۔ کہا جاتا ہے "ہم کسرام خلیفا عن

سلف" یعنی وہ لوگ اپنے باپ دادا سے کریم ہیں۔ "ہو خلیف صدق عن ابیہ" یعنی وہ اپنے باپ کا عادات و اخلاق میں سچا جانشین ہے۔

الخیالف: ناقہ۔ بے وقوف۔ وہ شخص جو تمہارے جانے کے بعد بیچارہ ہے۔ ذبیحاً خالیف: بگڑی ہوئی شراب۔ الخالیف: گوشت جس میں کچھ بڑ پیدا ہو گئی ہو اور کھانے کے قابل نہ ہو۔

الخیالفة: الخالیف: کامونٹ۔ گزری ہوئی

جماعت کے بعد باقی ماندہ جماعت۔ مکان کے پچھلے حصہ کا ستون۔ زجل خالیفة: بے وقوف۔ جھگڑا۔ بہت اختلاف کرنے

والا۔ کہا جاتا ہے "ما اذری ائی خالیفة ہو وائی الخالیف ہو" میں نہیں جانتا وہ کون شخص ہے۔

السخوالف: عورتیں۔ وہ زمینیں جن کی

پیداوار بعد میں اگے۔

الخیلاف: ناموافق۔ بید کی ایک قسم۔

آستین۔ المسابیل الخلیافیة: مختلف فرسائل۔

الخیالفة: امارت۔ قائم مقامی۔ امامت۔

الخیلفة: مرض کی وجہ سے بھوک کا زائل ہونا۔ ج خلیف۔

الخیلفة: آنا جانا۔ مخالفہ مختلف کپڑے کا بیوند۔ گھاس جو گرمی کے زمانہ میں اگے وہ چیز جو

سوار کے پیچھے لٹکانی جائے۔ باقی ماندہ چیز۔ کہا جاتا ہے "ہن یمشین خلیفة" وہ سب آگے

پیچھے آ جا رہی ہیں "جعل اللیل والنہار خلیفة" اس نے دن رات کو ایک دوسرے

کے پیچھے آنے جانے والا بنایا۔ و"قوم خلیفة" یعنی اختلاف کرنے والے

لوگ۔ و"فی البئر خلیفة من الماء: کنوئیں میں بقیہ پانی ہے۔

الخیلغة: مخالفت۔ بے وقوفی۔ عیب۔ کھانے کا آخری مزہ۔

اختیلاف المنظر: زاویہ (ستارے اور

زمین کے درمیان) وہ زاویہ جس کا سر "ک" ہو اور اس کا قاعدہ زمین کے قطر کا

انصب اور ب ہو۔ اس اختلاف کو اختلاف افقی بولتے ہیں۔

الخیلیف: دو پہاڑوں کے درمیان کا راستہ یا پہاڑی راستہ۔ وعدہ سے پیچھے رہنے والا۔

وعدہ خلاف کرنے والا۔ ج خلیف و خلیف و خلیف۔ الخلیف: وہ عورت جو بالوں کو

پیچھے لٹکالے۔

الخیلیفة: جانشین۔ قائم مقام۔ بڑا بادشاہ

کہ اس سے اوپر کوئی بادشاہ نہ ہو۔ یہ مذکر ہے۔ کہا جاتا ہے "ہذا خلیفة آخر" اور

کبھی لفظ کی رعایت سے مؤنث استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں "خلیفة اُخری"

ج خلیفاء و خلیائف: پہلے کے لحاظ سے عدد مذکر لاتے ہیں اور کہتے ہیں "ثلاثة خلیفاء"

اور دوسرے کے لحاظ سے مذکر و مؤنث

دونوں لانا جائز ہے۔ تم کہو گے "ثلاثة

أو ثلاث خلیائف"۔

الخیلف: بائیں ہتھا۔ بھینگا۔ کم عقل۔ سیلاب۔ نرساب۔

الخیلف: بہت وعدہ خلاف۔ ج

فخیالیف۔ المخیلف: پروا اور اس سے فخیالیف الیمین: ہے۔

المخیلغة: بیدار گئی کی جگہ۔ راستہ۔ مرحلہ۔ منزل۔

خلیفہ (ن) خلیفاً و خلیفة: پیدا کرنا۔ عدم سے وجود میں لانا۔ الکذب: جھوٹ گھڑنا

..... الاذیسم: کانٹے سے پہلے اندازہ کرنا

..... الشی: ہموار کرنا۔ چکنا کرنا۔ ملائم کرنا۔

خلق (س) خلیفاً و خلق (ک) خلوقاً و خلوقاً و خلافة: چکنا و نرم ہونا۔

خلق (ن) و خلق (س) و خلق (ک) خلوقاً و خلقاً: التوب: بوسیدہ ہونا۔

خلق الشی لہ: لائق ہونا۔ سزاوار ہونا۔

خلق الغلام: اچھے اخلاق والا ہونا۔ خلقہ: خلوق (ایک قسم کی خوشبو) لگانا۔

العود: ہموار کرنا۔ القذح: نرم کرنا۔ خالیفہم مخالفة: خوش خوئی کے ساتھ

معاشرت کرنا۔ الخلیف: ایک درخت جس کے پھول گلابی

اور پتے باریک چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں زینت کے لئے بویا جاتا ہے۔

أخلق. التوب: بوسیدہ ہونا۔

الشیاب: جوانی کا ختم ہونا۔ التوب

بوسیدہ کرنا۔ التوب: بوسیدہ کپڑا پہنانا۔ کہا جاتا ہے "أخلق لہ دیناً جینی" میں

نے اس کو اپنے ایسے راز پر مطلع کر دیا جس کے ظاہر ہونے سے عار ہو۔

تخلق: خلوق سے خوشبو دار ہونا۔ بغیر خلیفہ: بناوٹ سے اخلاق ظاہر

کرنا اور اس سے ہے "لیس الخلیفی

بِالْاِخْلَاقِ كَالْخُلُقِ: بناوٹی اخلاقی طبی عادات جیسے نہیں۔
 (.....واختلق) الكذب: جھوٹ گھڑنا۔
 افترأ کرنا۔
 اِخْلَوْلِقُ: الثوبُ: بوسیدہ ہونا۔ الرسمُ: زمین کے برابر ہو جانا۔ مَسْنُ الفرس: چکن ہونا۔ الدَّارُ: ویران ہونا اور عسی کے معنی میں امید کے لئے بھی مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے "اِخْلَوْلِقْتَ السَّمَاءَ اَنْ تَمْطُرَ" امید ہے کہ بارش ہو۔
 الخلقُ: مَص - فطرت۔ لوگ۔ ہر چکنی چیز۔
 الْيَخْلُقَةُ: فطرت۔ بیت۔ ح خلق۔
 الخلقُ وَالْمَخْلُوقُ: طبی خصلت۔ طبیعت۔ مروت۔ عادت۔ ح اخلاق۔ علم الاخلاق: حکمت عملیہ کی ایک قسم جس کا نام حکمتِ خلقیہ ہے۔
 الخلقُ: مَص - بوسیدہ (مذکر و مؤنث) کہا جاتا ہے "سَوَّبَ خَلْقِي وَجِبَّةَ خَلْقِي" ح "اخلاق و خُلُقَان اور کہا جاتا ہے "ثَوْبُ اخلاق و ثِيَابُ اخلاق"۔
 الخلقُ: بادل جس میں بارش کا اثر ہو۔
 الخلاقُ: بھلائی کا وافر حصہ۔
 الخلاقُ: چکنا۔
 الخلاقُ وَالْمَخْلُوقُ: ایک قسم کی خوشبو جس کا جزء اعظم زعفران ہے۔
 الخَلِيقُ: الاثق مناسب ہے۔ کہا جاتا ہے "هُوَ خَلِيقٌ بِهِ" وہ اس کے لائق ہے۔ کامل و معتدل اخلاق والا۔ ح الخلق و خُلُقَاء۔
 الخَلِيقَةُ: طبیعت۔ مخلوق۔ کتوں جو کھودا جا رہا ہو۔ ح خلاق۔
 الْاِخْلَاقُ: زیادہ الاثق۔ چکنا۔ فقیر۔ مؤنث خُلُقَاء۔
 الْمُخْتَلِقُ: کامل و معتدل اخلاق والا۔
 الْمُخْتَلِقُ: اخلاق کریمانہ رکھنے والا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مُخْتَلِقَةٌ" بدالک و لذلک "وہ اس کے لائق ہے۔
 الْخَلِيقِيْنَ: بڑا دو یک۔ ح خلاقین۔

اِبِل (خَلْمَةُ) چرنے والے اونٹ۔
 خَلَان (ن) خُلُوًا و خَلَاءً: الاناء: خالی ہونا۔
 الْمَكَانُ: رہنے والوں سے خالی ہونا۔
 الرَّجُلُ: مکان میں اکیلا ہونا۔ عَلِيّ الشّي: اقتصار کرنا۔ بس کرنا۔ عَلِيّ فلان: اعتماد کرنا۔ بہ فریب کرنا۔
 الشّي: گزرتا۔ کہا جاتا ہے "فَعَلَنَّهُ لِحَمْسِ خُلُونِ مِنَ الشَّهْرِ" میں نے اس کو پانچویں تاریخ کو کیا۔ عَنِ الْأَمْرِ وَمِنْهُ: بيزار ہونا۔ عَنِ الشّي: بھیجنا۔ بِالشّي: منفرد ہونا۔
 خَلَا (ن) خَلْوَةٌ و خُلُوًا و خَلَاءً: بِه و مَعَهُ و إِلَيْه: تنہائی میں ملنا۔ کہا جاتا ہے "خَلَا الرَّجُلُ بِنَفْسِه: منفرد ہونا۔ لِلأَمْرِ: کسی کام کے لئے فارغ ہونا۔ بِالْمَكَانِ: لازم رہنا۔ بَالِه: مطمئن ہونا۔ الخُزْنُ: غم سے جدا ہونا۔ صفت (خال) ح خُلُوًا اور کہا جاتا ہے "افْعَلْ كَذَا و خَلَاكَ ذَمٌّ" یعنی تمہیں اس کام کے کرنے پر مذمت نہیں۔
 خَلَى فَخَلِيَةً: الامر و غنہ: چھوڑنا۔
 مَكَانَهُ: مرنا۔ سَبِيلُهُ: چھوڑنا آزاد کرنا۔
 بَيْنَ الْمُشْتَرِي وَالْمَبِيعِ: سپرد کرنا۔
 بَيْنَهُمَا: دونوں کو اکٹھا ہونے کی حالت میں چھوڑنا۔
 خَلَاةٌ مُخَالَاةٌ: چھوڑ دینا۔
 أَخْلَى إِخْلَاءً: المکان: خالی کرنا یا پانا۔
 الْمَكَانُ: خالی ہونا۔ ہ و مَعَهُ و تَنْهَائِي میں ملنا۔ فَلَانًا مَعَهُ: کسی کو کسی کے ساتھ تنہائی میں ملنے دینا۔ غنہ: چھوڑنا۔
 فَخَلَى: تنہائی میں رہنا۔ مَسْنُ و غنہ: چھوڑنا۔ لَه: کسی کام کے لئے فارغ ہونا۔
 خَلِيَةً: اپنے لئے شہد کا چھتہ تیار کرنا۔
 إِخْتَلَى: تنہائی میں رہنا۔
 اسْتَخَلَى: ہ: تنہائی میں ملاقات چاہنا۔
 بِالْمَلِكِ: تنہائی میں ملنا۔ الْمَكَانُ: خالی ہونا۔
 الْاِخْلَاءُ: مَص - خالی مکان۔ پانچا۔

مَكَانُ خَلَاءً: خالی جگہ جہاں کوئی نہ ہو۔ کہا جاتا ہے "بَاتَ فِي الْبَلَدِ الْخَلَاءِ" اس نے تنہا شہر میں شب باشی کی۔ و "خَلَاوُكُ أَقْسَى لِحَيَاتِكَ" یعنی تنہا رہا مکان میں تنہا ہونا تمہاری حیا کا نگہبان ہے "وَأَسَا مَسْنُ خَلَاءً" میں اس سے بڑی ہوں۔ منفرد و شہد جمع مذکر و مؤنث سب کے لئے مستعمل ہے۔
 الخَلْوُ: خالی (مذکر و مؤنث) ح اخلاء اور کبھی مؤنث کے لئے خَلْوَةٌ استعمال کرتے ہیں۔
 خَلَا وَمَا خَلَا: إِلَّا: کے معنی میں کلمہ استثناء ہے۔ اگر فعلیت کا اعتبار ہو تو مشتق منسوب ہوگا جیسے "جَاءَ أَتْبَاعُ الْأَمِيرِ خَلَا أَوْ مَا خَلَا زَيْدًا" اور حرف جر ہونے کی صورت میں مجرور ہوگا جیسے "خَلَا زَيْدًا" اور خلا سے پہلے اگر ما مصدریہ ہو تو اس کا فعل ہونا متعین ہے۔
 الْخَلْوَةُ: تنہائی کی جگہ۔ ح خَلَوَاتٍ۔
 الْخَلِيَّةُ: شہد کی کھپوں کا چھتہ۔ بڑی کشتی۔ شیر کی جھاڑی۔ ح خَلَايَا۔
 الْخَلِيَّةُ: ح خلا یا تمام زندہ کائنات کا بنیادی مادہ۔ کائنات بسبب ایک خلیہ سے بنتی ہے اور کائنات مرکب مجموعہ خلیہ ہوتا ہے۔
 الْخَلِيَّةُ: فارغ۔ غم سے خالی۔ وہ شخص جس کی بیوی نہ ہو اور کہا جاتا ہے "أَنَا خَلِيَّةٌ بِنْتُهُ" میں اس سے بری ہوں۔ ح أَخْلِيَاءُ و خَلِيُونَ: شہد کی کھپوں کا چھتہ۔
 الْخَالِي: فنا۔ کنوارا۔ کنواری۔ ح اخلاء۔
 خَلِي (ض) خَلِيًا: النبات: کاٹنا۔
 الْفَاشِيَةُ: جانوروں کے لئے گھاس کا ٹٹا۔
 الْفَرَسُ: منہ میں لگام دینا۔
 الْبَلْحَامُ: مِنَ الْفَرَسِ: اتارنا۔ الشَّعِيرُ فِي السَّمْحَلَةِ: توہر میں جوہر الٹا۔ الْقَدْرُ: ہانڈی کے نیچے ایندھن لگانا۔ ہانڈی میں گوشت ڈالنا۔
 خَالِي مُخَالَاةٌ: ہ: پچھاڑنا۔ فریب دینا۔
 أَخْلَى: الْمَكَانُ: زیادہ گھاس والی جگہ ہونا۔

..... الذابئة: گھاس کا چارہ دینا۔ إختلی. العشب: کاٹنا۔ إختلی. الخلی: کٹنا۔ إختلوی إختلیاء الرجل: دودھ پینے پر مداومت کرنا۔ الختلوی: لکڑی اور روئی وغیرہ کی پیدائش میں بنیادی مادہ۔ الختلی: ترکھاس۔ ج اختلاء واحد (خلالة) المختلی: گھاس کاٹنے کا اوزار۔ کھریا۔ المختلاة: تورہ۔ ج مختال۔ المختلی: شیر۔ خَم: (ن ض) خَمًا. التین: جھاڑو دینا البیسر: کتوں صاف کرنا..... الناقاة: دوہنا..... فلانا: تعریف کرنا اور کہا جاتا ہے "هُوَ یَحْمُ فُلان" یعنی وہ فلان کی تعریف کرتا ہے (خَمًا وَخُمُومًا وَخَمَّ) اللحم: بدبودار ہونا۔ صفت (خَمَّ وَخَمَّ وَخَمَّ)..... السلبن: بگڑنا۔ کہا جاتا ہے "فلان لا یَحْمُ" فلاں اپنے افعال کریمانہ سے جدا نہیں ہوتا۔ خَم. الدجاج: ڈڑیہ میں بند کیا جانا۔ تَحْمَم. ماغلی الخوان: دسترخوان کا باقی ماندہ کھانا کھانا۔ إختم. البیت: جھاڑو دینا..... الشئی: کاٹنا۔ الخَمامة: کوڑا کرکٹ۔ کتوں کی صفائی میں جو نکلے کھانے کا چورا جو کھرجائے۔ الخُم: ڈریہ۔ ج خَمَمَة. الخُم: خالی باغ۔ الخَمسان. مثلثة الخساء: ادنیٰ درجہ کے لوگ۔ گھٹیا سامان۔ ناکارہ درخت۔ المخمة: جھاڑو۔ الخمیم: تازہ دودھ۔ تعریف کیا ہوا۔ ست قلب (مخمو م) حسد و کینہ سے پاک صاف دل۔ الخمیمت: موٹا۔ خَمج (س) خَمَجًا: بیماری یا تھکن کی وجہ	سے ست ہونا..... اللخُم: بدبودار ہونا دینة او خُلْفَة: فاسد ہونا۔ خراب ہونا فلانا: برائی سے ذکر کرنا۔ خَمَجَم: گنگناٹا۔ الخَمَجَم: ایک سمندری چھوٹا جانور۔ الخَمَجَم: ایک قسم کی کانٹے دار گھاس۔ خَمَدَت (ن) وَخَمَدَت (س) خَمَدًا وَخُمُودًا. النار: آگ باقی رہتے ہوئے پٹ کر ختم ہو جانا..... الخمی: بخار کی تیزی کالم ہونا۔ المریض: بے ہوش طاری ہونا۔ مرنا۔ أخمد. الرجل: بے حرکت ہونا۔ خاموش ہونا..... انفاسه: نارڈالنا یا ذلیل کرنا..... النار: پٹ کر بچھانا۔ الخمود: آگ بجھنے کے لئے دبانے کی جگہ۔ خَمَره (ن ض) خَمْرًا: چھپانا..... الشهادة: پوشیدہ کرنا..... الرجل: شراب پلانا..... العجین: خمیر ڈالنا..... فلانا: شرم کرنا۔ خَمِر (س) خَمْرًا. عَنه: پوشیدہ ہونا چھپنا..... عَنه الخبر: پوشیدہ رہنا..... الشئی: سابقہ حالات سے بدل جانا۔ خَمَر. العجین: خمیر ڈالنا..... وَجْهَة: ڈھانپ لینا..... بیتہ: گھر میں جھے رہنا..... خامر مُخامَرَة: بیخ میں دھوکا دینا۔ القلب: داخل ہونا..... الشئی الآخر: باہم ملنا..... ه السداء: بیماری کا اندر تک اثر کرنا..... بیتہ: گھر میں جھے رہنا..... بہ: چھپنا۔ أخمر: چھپنا..... له: کینہ رکھنا..... الشئی: چھپانا..... فائل کرنا..... العجین: خمیر ڈالنا الامر: پوشیدہ کرنا..... الأرض: زمین میں گھٹی جھاڑی بہت ہونا..... ه الشئی: تختہ دینا۔ تَحْمَرَت وَإخْتَمَرَت. المرأة: اوزھنی ڈالنا و إختَمَر العجین: خمیر ہو جانا۔	إختمر العصیر: شراب بن جانا۔ الخمر والخمرة: اٹوری شراب۔ ہر نشی چیز۔ الخمر: کتیہ۔ الخمر: لوگوں کی جماعت و بھیڑ۔ گھٹی جھاڑی۔ تم کہتے ہو "تَوَارَى الصید عَنی" فسی خمر الوادی" شکار مجھ سے وادی کی گھٹی جھاڑی میں چھپ گیا۔ الخمر: وہ جگہ جہاں گھٹی جھاڑی زیادہ ہو۔ رجل خمر: وہ شخص جس کو نشہ کا شمار لاحق ہو۔ الخمار: شراب کی وجہ سے درد سر۔ (..... والخمار والخمرة) لوگوں کی کثرت و ہجوم۔ الخمار: اوزھنی۔ دو پیٹہ۔ پردہ۔ ج اخمرة وَخَمْر وَخَمَر: کہا جاتا ہے "مَسَامُ خَمَارک؟" یعنی کیا چیز تجھ کو لاحق ہوئی جس نے تجھ کو تیری حالت سے بدل دیا۔ الأخمسار: کیمیائی تبدیلی، یعنی بنیادی مادہ دوسرے مادہ میں تبدیل کرنا مثلاً چینی کے شیرہ سے اکھل بنانا۔ الخمیر والخميرة: خمیر۔ الخمیر: خمیری روٹی۔ الخميرة: خمیر کرنے کا برتن۔ شراب کی تلچھٹ۔ شراب کی تکلیف و دوران سر۔ بخور کی چھوٹی چٹائی۔ خُمرة اللین: وہ چیز جس کو دودھ میں ڈالنے سے جلدی جم جائے۔ ج الخمر (..... والخمرة والخميرة) بوجہ تمہیں پہنچے۔ الخمری. من الالوان: سیاہ رنگ جو سرخی مائل ہو۔ الخمار: شراب فروش و (الخمارة) شراب پینے کی جگہ۔ الخمر والمستخمر: بہت شراب پینے والا۔ المخمور: شراب کی وجہ سے مست۔ خمس (ن ض) خَمَسًا. القوم: پانچواں
---	---	---

ہونا۔ قوم کے مال کا پانچواں حصہ لینا۔
 المال: پانچواں حصہ لینا..... الخَمْلُ: پانچ
 لڑیوں سے بنتا۔
 خَمْسٌ۔ الشئ: پانچ رکن والا بنانا اور اسی
 سے شعراء کے نزدیک خمیس ہے۔ جس کے
 معنی کسی شعر میں تین مصرعے بڑھا کر پانچ
 مصرعوں کا کر دینا ہے۔

أَخْمَسَ۔ القوم: پانچ ہونا۔
 الخَمْسُ والخُمُسُ: پانچواں حصہ۔ ج
 أَخْمَسَ: کہا جاتا ہے "ضرب أَخْمَاسًا
 لِأَسَدَاسٍ" یعنی اس نے کمزور فریب میں
 کوشش کی۔

خُمَاسٌ وَمَخْمَسٌ: پانچ پانچ (یہ خمرہ
 سے معدول ہے) کہا جاتا ہے
 "جَانُوا أَخْمَاسًا وَمَخْمَسًا" وہ پانچ پانچ
 آئے۔ یہ مذکر مؤنث دونوں کے لئے
 مستعمل ہیں اور غیر منصرف ہیں۔

الخُمَاسِيُّ: پانچ حرفوں والا۔ کہا جاتا ہے
 "جَارِيَةٌ خُمَاسِيَّةٌ" پنج سالہ لڑکی۔
 الخَمْسَةُ: پانچ۔ مؤنث کے لئے خمس۔
 خَمْسُونَ: پچاس۔

الخَمِيْسُ۔ وَيَوْمُ الخَمِيْسِ: جمعرات۔ ج
 أَخْمَسَةٌ وَأَخْمَسَاءُ۔ الخَمِيْسُ: بنگلہ۔ اس
 لئے کہ اس میں پانچ جماعتیں معمنہ۔
 ميسره۔ قلب۔ ساقہ۔ مقدمہ الجیش ہوتی
 ہیں۔ رُمَحٌ (خَمِيْسٌ وَمَخْمُوسٌ) پانچ گز
 کا نیزہ۔

المُخْمَسُ: پانچ ارکان والا۔ بھاری بوجھ
 اٹھانے کے لئے لوہے کا ایک آلہ۔
 الْمُخْمَسُ: وہ شکل جس کو پانچ برابر کے
 اضلاع گھیر لیں۔

الخَمِيْسُ: شعراء کے نزدیک تین شعر کو شعر
 سے دو شعر کی طرف ملانا۔
 خَمَشَ (ن ض) خَمَشًا وَخُمُوشًا۔
 الوجہ: خراش لگانا۔ تھپڑ مارنا۔
 خَمَشَهُ: زیادہ خراش لگانا۔
 الخَمَشُ: مصل۔ خراش۔ ج خُمُوش۔

الخَمَاشَةُ: خفيف زخم۔ ایسا زخم جس پر بدلہ
 مقرر نہ ہو۔ ج خَمَاشَاتُ: یا وہ زخم جو پوری
 دیت یا واجب ہونے سے کم درجہ کا ہو۔ جیسے
 ہاتھ کان یا ناک وغیرہ کا ٹانا۔
 الخَمُوشُ: بچھر۔

خَمَصَ (ن) خَمَصًا وَخُمُوصًا
 وَإِنْخَمَصَ۔ الجرح: ورم کا جانا رہنا۔
 خَمَصَةٌ خَمَصًا وَخُمُوصًا وَمَخْمَصَةٌ

الجوع: دبلے پیٹ والا کر دینا
 (.....) وَخَمَصَ (س) خَمَصًا
 وَخَمَصَ (ك) خَمَصًا وَخُمُوصًا
 وَمَخْمَصَةٌ البطن: پیٹ کا خالی ہونا۔
 ہونا۔

تَخَمَصَ۔ الليل: صبح کے قریب رات کی
 تاریکی کا کم ہونا..... غَنَهُ: یکسو ہونا۔
 الخَمَصَةُ: بھوک۔

خَمَطَ (ن) خَمَطًا وَخُمُوطًا وَخَمِطَ
 (س) خَمِطًا۔ الخمر أو اللبن: اچھی بوکا
 ہونا۔ بوس میں تغیر پیدا ہو جانا۔ صفت (خامط
 وَخَمِطَ) خامط الرجل: تکبر کرنا۔
 غضبناک ہونا۔ (خَمِطَ (ض) خَمِطًا)

اللحم: بھوننا۔ صفت مفعولی خَمِطَ۔
 خَمِطًا (ن ض) خَمِطَ اللَّبْنُ: دودھ کو برتن
 میں ڈالنا۔
 تَخَمِطَ: تکبر کرنا۔ غضبناک ہونا۔ البحر:

موج مارنا۔ الفحل: بڑبڑانا۔
 الخَمِطُ: مصل۔ ہر گھٹی یا کڑوی چیز۔ ہر
 درخت کا تھوڑا پھل۔ ہر بے کانٹے والا
 درخت۔ پیلو کا پھل۔

ایک قسم کی سانپ کی چمتری۔
 الخَمِطَةُ والخَمِطَةُ: مِنَ اللَّبْنِ: دودھ کی
 بو۔

خَمِغَتْ (ف) خَمَغًا وَخُمُوعًا
 وَخَمَغَانًا۔ الضبع: بنگلہ آتے ہوئے چلنا۔
 الخَامِغَةُ: بچو۔ ج خَوَامِعُ۔
 الخَمَاعُ: بنگلہ آہٹ۔
 الخَمْعُ: بھیریا۔ چور۔ ج أَخْمَاعُ۔

الخَمِغُ والخُمُوعُ: بدکار عورت۔
 خَمَلٌ (ن) خُمُولًا: ذَكَرُهُ أَوْ صَوْنُهُ:
 پوشیدہ و کمزور ہونا (خَمَلٌ (ن) خَمَلًا)
 البسور: نرم ہونے کے لئے گھڑے وغیرہ میں
 ڈالنا۔ کہا جاتا ہے "خَمَلَهُ اللَّهُ" اللہ اس کو
 ہلاکت میں ڈال دے۔

خَمِلٌ: جوڑوں کی بیماری والا ہونا۔
 أَخْمَلَهُ: گنہگار بننے قدر کرنا۔ أَخْمَلَتْ
 الارضُ: بہت گنجان درختوں والی ہونا۔
 أَخْمَلُ القَطِيفَةُ: روئیں دار بنانا۔

إِخْتَمَلَتِ۔ الفاشية: جانوروں کا اچھی
 گھاس والی زمین میں چرنا۔
 الخَمِيلُ: قاصد..... مِنَ الرَّجَالِ: گنہگار بننے
 قدر۔ ج خَمَلٌ۔

الخَمَلُ: کپڑے کا رُواں۔
 (.....) وَالخَمَالُ القَو الخَمِيلَةُ: شتر مرغ کے
 پر۔

الخَمَلَةُ: چادر۔ روئیں دار کپڑا۔
 الخَمَلَةُ: راز۔ اندرونی کیفیتیں۔ ج
 خَمَلَاتُ۔

الخَمَالُ: جوڑوں کا درو..... وَالخَمَالِيُّ
 وَالخَمَلُ وَالخَمَلُ: خالص دوست۔
 الخَمِيلُ: روئیں دار کپڑے۔ نرم خوراک۔
 گہرا بادل۔ واحد خَمِيلَةٌ۔

الخَمِيلَةُ: چادر۔ بہت گھنا درخت۔ بہت
 درختوں والی پست زمین۔ ج خَمَالِلُ۔
 المَخْمَلُ: روئیں دار کپڑا۔
 خَمَنَ (ن ض) خَمَنًا وَخَمَنَ الشئُ:
 تخمینہ کرنا۔ قیمت لگانا۔ اندازہ کرنا۔

الخَامِنُ: گنہگار بننے قدر۔
 الخَمَنُ: بدبو۔
 الخَمَانُ: کمزور نیزہ۔ گھٹیا درجہ کا آدمی۔ کہا
 جاتا ہے "هُمُ خَمَانُ النَّاسِ" وہ گھٹیا درجہ
 کے لوگ ہیں۔

الخَمَانَةُ: کمزور نیزہ کا چمڑا۔
 خَمَنٌ (ض) خَمِينًا: ناک میں روٹنا یا بولنا یا
 ہنسا۔ صفت (أَخَنٌ)

<p>خ ح ن (ن) خَنَا: المال: لینا۔ القوم: قوم کے حریم میں داخل ہونا۔ أَخْنَهُ: عقل چھین لینا۔ صفت (مخنُون) قیاس کے مطابق (مخن) ہونا چاہئے۔ أَسْنَخْنَتْ: البئر: بدبودار ہونا۔ الخن: خالی کشتی۔ الخنّة: گنگناہٹ۔ ناک کی آواز۔ الخنان: آسودگی۔ آرام۔ الخنان والخنان: اوتوں کا زکام۔ ناک کی ایک بیماری۔ پرندوں کے گلے کی ایک بیماری۔ المخن: لمبا مرد۔ المخنّة: گنگناہٹ و ناک کی آواز۔ ناک گھر کا درمیان۔ سخن۔ واضح راستہ۔ راستہ میں داخل ہونے کی جگہ۔ وادی کی تنگ جگہ۔ کہا جاتا ہے "فلان مخنّة لفلان" فلاں چیز فلاں کے کھانے کی ہے۔ خَنَا (ف) خَنَا: الجذع: کاٹنا۔ خَيْب (س) خَيْبًا: زکام والا ہونا۔ لنگڑا ہونا۔ ہلاک ہونا۔ کمزور ہونا۔ أَخْنِبَ وَأَخْنَبَ: ہلاک ہونا۔ اَخْنَبَ: ہلاک کرنا۔ کمزور کرنا۔ تَخْنَبَ: تکبر کرنا اور ناک کے دونوں تھنھے بلند کرنا۔ الخنْب: ایک قسم کی بیماری جو ناک میں ہوتی ہے۔ الخنْب: زانو کا باطنی حصہ۔ پسلیوں یا انگلیوں کے درمیان کی کشادگی۔ ج اَخْنَابَ۔ الخناب: لمبا۔ بے وقوف۔ الخنابة: برائشان۔ برائی۔ الخنابة والخنابة: تکبر۔ غرور۔ الخنابتان والخنابتان: ناک کے تھنھے۔ خَيْث (س) خَيْثًا الرّجل: بچھا ہونا۔ صفت خَيْث خنثہ (ض) خنثًا: ٹھنھا کرنا۔ السقاء: مشیزہ کے سرے کو پھاڑ کر باہر کی طرف موڑ دینا۔</p>	<p>خَنَثَه: موڑنا۔ نرم کرنا۔ بچھا جانا۔ أَخْنَتْ: دوہرا ہونا۔ چکنا۔ تَخْنَتْ وَأَخْنَتْ: بچھا ہونا۔ خَنَاتٍ: مؤنث کے لئے وصف ہے اور صرف مذہبی کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے "یا خَنَاتٍ" یعنی اے چکنے والی۔ خَنَاتٍ: الشوب والخناتہ: کپڑے کی جھبہ کہا جاتا ہے "إطو الشوب علسی خناتہ" کپڑے کو اس کی تہ پر لیٹو۔ واحد (خنث) الخنث: چک۔ الخنثی: بچھا۔ ج خناتہی وخنات۔ المخنات: وہ شخص جس میں بہت زیادہ چک ہو۔ کہا جاتا ہے "زجل مخنات وامرأة" مخنات۔ ج مخنات۔ المخنث: بچھا۔ وہ شخص جس میں چک ہو۔ الخنجر۔ والخنجر: بڑی چھری۔ ج خناجر۔ خَنَصِحَ خَنَصْحَةً: ناک میں بولنا۔ فی کلامہ: گنگناٹا۔ الخنذب: بدخلق۔ الخنذریس: پرانی شراب۔ الخنذع: خیس۔ لیم۔ الخنذق: کھدائی۔ ج خنذاق وخنذق خنذقم: کھائی کھوٹا۔ تَخْنَذُ: بے شرم دلیر ہونا۔ الخنذید: لمبا۔ سخت۔ پہاڑ کی بلند چوٹی۔ بلغ شاعر۔ بہادر۔ سخی۔ گولہ۔ بد زبان۔ خصی گھوڑا۔ ج خنذید۔ الخنذع: خیس۔ لیم۔ خَمِيْر (س) خَمِيْرًا وَخَمِيْرًا: اللحم: بدبودار ہونا۔ صفت (خَمِيْر وَخَمِيْر) الخَمِيْرَانِ وَالخَمِيْرَانَةُ: تکبر۔ غرور۔ الخنموان: بندر۔ بزبور۔ الخنمویر: سور۔ ج خنمازیر۔ الخنمویر: کٹھ مالا۔ خَمِيْرِي البخر: چکلی کی ایک قسم۔ خَمِيْرِي الهيد: خرگوش کی مانند اس سے چھوٹا</p>	<p>خ ح ن س خ ح ن ذ خ ح ن ث</p>
<p>ایک جانور جس کی کھال پر مختلف رنگ کے داغ ہوتے ہیں۔ خَمِيْرِيَة البئر: کنوئیں کی چرخی جس پر پانی نکالتے ہوئے رسی لپیٹے ہیں۔ الخَمِيْرِيَة: موٹائی۔ پتھروں کے توڑنے کی بڑی کدال۔ خَمَس (ن ض) خَمَسًا وَخَمِيْرًا وَخَمِيْرًا: غنہ: پیچھے ہونا۔ علیحدہ ہونا۔ سکرنا۔ کہتے ہیں "خَمَس الطریق عنا" یعنی ہم راستے سے گزر گئے اور اس کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا۔ بَيْنَ أَصْحَابِهِ: چھینا۔ خَمَسَة (ن ض) خَمَسًا: پیچھے کرنا۔ إِنْهَامَه: سہینا۔ کہا جاتا ہے "إشاز بِأَرْبَعٍ وَخَمَس إِنْهَامَه" اس نے چار انگلیوں سے اشارہ کیا اور انگوٹھے کو سمیٹ لیا۔ القول: بڑی بات کہنا۔ الشئ غنہ: چھپانا۔ فَلَانًا وَبِه: غائب کر دینا۔ چھپا دینا۔ صفت خائس۔ ج خَمَس۔ خَمَس (س) خَمَسًا: ناک کا چھپنا ہونا اور اس کے سرے کا اٹھا ہوا ہونا۔ صفت (أَخْمَس) مؤنث خَمَسًا ج خَمَس اسم الخمس۔ أَخْمَسَه: غنہ: روکنا۔ پیچھے کرنا۔ کہا جاتا ہے "أَخْمَسَتْ عَنْهُ بَعْضُ حَقِيْقَه" میں نے اس کے کچھ حصہ کو روک لیا۔ أَوْعَاذُ الطَّرِيقِ: دشوار راستوں سے آگے بڑھ جانا۔ تَخْمَسُ بِهِ: غائب کر دینا۔ أَخْمَسَ: غنہ: پیچھے ہونا۔ سکرنا۔ الْخَمَس: ہیرنیوں کے رہنے کی جگہ۔ ہرنیاں۔ جنگلی گائے۔ الْخَمَس: ستارے یا صرف سیارے۔ یا بقول بعض چند سیارے جن کے نام یہ ہیں۔ زحل، مشتری، مریخ، زہرہ، عطارد۔ الْخَمَسَاء: نیل گائے۔ ایک مشہور شاعرہ کا لقب۔ الْأَخْمَس وَالْخَمِيْرَس: شیر۔ الْأَخْمَس: چھری۔</p>		

گردن۔ کہا جاتا ہے "غلامٌ مُخَنَّقٌ الخَصْرُ" پتلی کمر کا لڑکا۔
المُخَنَّقُ: تنگ جگہ۔

المُخَنَّقُ: تنگ جگہ۔
المُخَنَّقُ: گھوڑا جس کی پیشانی کی سفیدی رخساروں تک ہو۔

خَنَّا (ن) خَنَوًا وَخَنِي (س) خَنِي
وَخَنِي عَلَيْهِ فِي الْكَلَامِ: بدزبانی کرنا۔
أَخَنِي الْجَرَادُ: بہت اٹمے دینا۔

المُرْعَى: بہت گھاس والی ہوتا۔ أَخْنَى عَلَيْهِ
الْمَهْرُ: طویل ہوتا۔ ہلاک کرنا۔ ظلم کرنا۔
بے وفائی کرنا اور کہا جاتا ہے "أَخْنَى بِهِ" اس
نے اسے چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ بد مہدی
کی۔

الخَنِي: بدزبانی۔ خَنِي الذَّهْرُ: مصیبتیں
واحد (خَنَاة)

خَابَ (ن) خَوًا بِحَتِّاجٍ هَوَا۔
الخَوِيَّةُ: بھوک۔ بغیر چارہ والی زمین یا وہ
زمین جس پر بارش نہ ہوئی ہو۔

خَاتَ (ن) خَوْنَا وَخَوْنَا، الرَّجُلُ عَمْرٍ
رَسِيدٌ هَوَا۔ عَمْدُ تَوْنَا۔ خَلَا فِ
وَعَدِ كَرْنَا

المَالُ: کم کرنا۔ وَأَخَاتَ
وَإِخَاتَ) البَاذِي عُلَى الصَّيْدِ: ٹوٹ
پڑنا۔

خَاتَ (ن) خَوْنَا، الْعَقَابُ: عقاب کے
بازوؤں کی سرسراہٹ ہوتا۔

تَخَوْتُ وَإِخَاتَ، الْمَالُ: کم کرنا
..... الشَّيْءُ: اُجَلَّ لِيْنَا..... خَدِيثُ الْقَوْمِ:
سن کر یا دور کرنا..... الشَّاءُ: فریب دے کر
چرانا۔ کہا جاتا ہے "هُمْ يَخْتَانُونَ اللَّيْلَ" وہ
رات میں رہتی کرتے ہیں۔

الخَوَاتُ: دلیر مرد۔
خَوْتُ (س) خَوْنَا، الْبَطْنُ: ڈھیل ہونا۔
کھانے سے بھرا ہوا ہونا۔ صفت (أَخَوْتُ)
مؤنث (خَوْنَاة)

أَخَاخَ إِخَاخَةً، الْعُشْبُ: پوشیدہ ہونا۔ کم
ہوتا۔

الخَوُّ: شتقاؤں کا واحد (خَوْنَاة)

بِأَنفِهِ: تکبر کرنا۔ صفت (خَائِفٌ)..... المرأةُ:
سینہ پر دو ہتھ مارنا۔

خَيْفَ (س) خَفًا، صَدْرُهُ أَوْ ظَهْرُهُ: ایک
جانب دوسری کے مخالف پیٹھ یا سینہ والا
ہوتا۔ صفت (أَخْفَ) ج خُنْفَ.

الخُنْفُ: نشانات۔
خَنَفَسَ، عَنِ الْقَوْمِ: نفرت کرنا۔ علیحدہ ہو
جاتا۔

الخُنْفَسُ وَالْخُنْفِيسُ وَالْخُنْفِيسُ
وَالْخُنْفَا وَالْخُنْفَسَانَةُ: گہریلا۔ ج
خُنْفَسُ.

والخُنْفِيسُ: شیر۔
خَنَفَسَاءُ الْبَطَايِسُ: آلو کو نقصان دہ
امر کی سڑی۔

خَنَقَهُ (ن) خَنَقًا وَخَنَقًا وَخَنَقَهُ تَخْنِيقًا: گلا
گھونٹنا۔ کہا جاتا ہے "أَخْنَقْتُهُ الْبَعِيرَةَ" یعنی
اُسے روتے روتے پھندا لگ گیا۔ خَنَقَ
الْإِنَاءَ: بھرتا۔ خَنَقَ الشَّرَابَ التَّخِيلَ: پہاڑ
کی چوٹی کو قریب قریب چھپا لیتا۔ خَنَقَ زَيْدًا
الْأَزْبِيعِينَ: قریب قریب ہونا۔

أَخْنَقَ: گلا گھونٹنا۔
أَخْنَقَ: اپنا گلا گھونٹنا ہوا۔

الخُنَاقُ: ایک بیماری کا نام جس میں سانس
لینا مشکل ہوتا ہے۔

الخُنَاقِيَّةُ: پرندوں اور گھوڑوں کے حلق کی
بیماری کا نام۔

الخُنَاقُ: بڑی وغیرہ جو گلا گھونٹنے کے کام
میں آئے۔ گردن۔ کہا جاتا ہے "أَخَذَهُ
بِخُنَاقِهِ" اس نے اس کی گردن پکڑ لی۔

الخَائِقُ: فاجح راست۔ گلی۔ خَائِقُ الذَّنْبِ
وَخَائِقُ النَّمْرِ وَخَائِقُ الْكَلْبِ: گھاسوں
کے نام۔

الخَائِقُ: جس کی عادت گلا گھونٹنے کی ہو۔
المُخَنَّقَةُ: گھونڈ (ایک زیور) وہ چیز جس
سے گلا گھونٹا جائے۔ ج مَخَائِقُ وَمَخَائِقُ.

المُخَنَّقُ: منع۔ گلا گھونٹنے میں رسی کی جگہ

الخُنَّاسُ: شیطان۔
الجُنَيْسُ: قرمبی۔ جلد گر۔

الخُنْسِرُ: لہیم۔ کینہ۔
الخُنْسِرُ وَالخُنْسِرِيُّ: وہ شخص جو نقصان
کے موقع میں ہونے خنابسیرہ۔
الخنابسيرُ: مصیبتیں۔

الخُنْشَارُ: ایک قسم کی نباتات۔
الخُنُوصُ مَوْنُثُ الخُنُوصَةُ: سور کا بچہ۔ ج
خُنَابِيصُ.

الخُنْصِرُ وَالخُنْصِرُ: چنگلیا۔ ج خُنْصِرُ: کہا
جاتا ہے "هَذَا أَمْرٌ تَقَعُدُ عَلَيْهِ الخُنْصِرُ"
یعنی یہ ایسا معاملہ ہے جس کا اعتبار کیا جاتا
ہے۔

خَنْطَهُ (ض) خَنْطًا: رنج و غم پہنچانا۔
خَنْطُتْ: تکبر و غرور کے ساتھ چلنا۔
الخِنْطِيرُ: بہت بڑھیا۔ جس کی پلکیں لٹک
آئی ہوں۔

المَخْطَلُ: بلی۔ مصیبت۔ تظار۔ مڈی دل۔
خَنَعَ (ف) خُنُوعًا لَهُ وَالْيَهُ: انکساری و
فروتنی کرنا..... السُّيِّئُ: بغیر عمل کے گڑبگڑانا
..... بَفْلَانٌ: بے وفائی کرنا..... السُّيِّئُ الْأَمْرُ
الشَّيْءُ: مائل ہونا۔

خَنَعَهُ: کلباڑی سے کاٹنا۔
إِخْنَعَهُ: الحَاجَةُ لَهُ وَالْيَهُ: ذلیل و پست ہو
کر دینا۔

الخِنَعُ: ذلت۔
الخِنَعَةُ: عار۔ تہمت۔

الخُنَابِعُ وَالخُنُوعُ: متہم۔ بدکار۔ بدگمانی
میں ڈالنے والا۔ ج خُنَعَةٌ وَخُنَعٌ.
الخِنَعَابَةُ: کینہ۔

شَعْرُ (خَنْعَبٌ) لِبَابِالـ
الخُنَعِيَّةُ: چھوٹا گڑھا۔ مویچھوں کے درمیان
کا گڑھا۔

خَنَفَ (ض) خَنَفًا، الْبَعِيرُ: دوڑنے میں
سر کو سوار کی طرف پھیرنا۔ صفت (مذکر و
مؤنث) (خُنُوفٌ) ج خُنُوفٌ.

(..... خُنُوفًا) غصبناک ہونا..... الرَّجُلُ

خَنَفَ (ض) خَنَفًا، الْبَعِيرُ: دوڑنے میں
سر کو سوار کی طرف پھیرنا۔ صفت (مذکر و
مؤنث) (خُنُوفٌ) ج خُنُوفٌ.
(..... خُنُوفًا) غصبناک ہونا..... الرَّجُلُ

دیکھنا..... النجوم: مائل بغروب ہونا۔ خَاوَصَةٌ مُخَاوَصَةٌ وَخَاوَصَةُ الْبَيْعِ: بیچنے میں مقابلہ کرنا۔ أَخْوَصُ: النخل: پتے والا ہونا۔ تَخْوَصُ: الشئ: تھوڑے ہونے کے باوجود لے لینا..... السَّعْطِيَّةُ: تھوڑا تھوڑا کر کے لینا۔ الخَوَاصُ: کھجور کے پتوں کا بیچنے والا اور اس کے عمل کو (الخياصة) کہتے ہیں۔ الخَوَصُ: کھجور کے پتے۔ واحد (خَوْصَةٌ) الخَوَصَاءُ: گرم ہوا جو آنکھوں کو چندھا کر دے۔ کہا جاتا ہے "حَرَّ جَوَافِي الظَّهْرِ الخَوَصَاءُ" وہ دو پہری کی سخت گرمی میں نکلے۔ خَاصُ (ن) خَوْصًا وَخِيَاصًا. الماء: داخل ہونا۔ گھٹنا..... الشراب: ملانا..... السَّمَرَاتِ: نختیوں میں کود پڑنا..... فِئِ السَّحَابِ: مشغول ہونا..... الْجَوَادُ فِي السَّيْدَانِ: کلیں کرنا۔ بالفرس: پانی پر لے جانا..... بالسَّيْفِ: زخم میں تلوار بلانا۔ کہا جاتا ہے "إِنَّهُ يَخْوَصُ الْمَنِيَا" وہ اپنے آپ کو ہلاکتوں میں ڈالتا ہے۔ وَهُوَ يَخْوَصُ اللَّيْلَ: وہ رات کو ہولناکیوں کی پروا نہ کرتے ہوئے گھس پڑتا ہے۔ خَوْصُ: الماء: داخل ہونا۔ گھٹنا۔ خَاوَصٌ مُخَاوَصَةٌ وَأَخْوَصُ: إِخْوَصَةُ الْفَرَسِ: پانی میں داخل کرنا۔ أَخْوَصُوا الْمَاءَ: جانوروں کو پانی میں ڈال دینا۔ تَخْوَصُ: حُكْفَتُ: گھٹنا۔ إِخْتِوَصَ الْمَاءَ: داخل ہونا۔ گھٹنا۔ تَخْوَصُ: القومُ فِي الْحَدِيثِ: باہم مشغول ہونا۔ الخَوْصَةُ: خَاصُ: کا اسم مرہ۔ موتی۔ الخَوَاصُ: بہت گھنے والا۔ الْمَخَاوَصَةُ: پانی میں گھسنے کی جگہ۔ جِ مَخَاوِصُ وَمَخَاضُ وَمَخَاضَاتُ: تَخَوَّطُهُ: وَقَافُوا قَا آتَا۔	الخَوَصُورُ: بھس۔ دو بلند یوں کے درمیان پست زمین۔ الخَوَوَارُ: بھس۔ گائے کی آواز۔ بکریوں ہرنوں اور تیر کی آواز کے لئے بھی مستعمل ہے۔ الخَوَوَارُ: بزدل۔ کمزور۔ ست۔ فرس خَوَوَارُ الْعَيْنَانِ: تابعدار تیز رفتار گھوڑا۔ الخَوَوَارُ مِنَ الزَّنَادِ: چمٹاق۔ الخَوَوْرِي: کاہن۔ جِ خَوَوْرَانَةٌ (ذخيل) الخَوَوْرُسُ: گر جہاں خادموں کے قیام کی جگہ (جدید) خَوَزَه (ن) خَوَزًا: دشمنی کرنا۔ خَاسَتُ (ن) خَوَسًا. الحَيْفَةُ: بدبودار ہونا..... البِضَاعَةُ: مندھ ہونا..... خَاسَ الْعَهْدَ وَبِالْعَهْدِ: بدعہدی کرنا..... بِالْوَعْدِ: خلاف وعدہ کرنا..... بِفُلَانٍ: بے وفائی کرنا۔ خَوَسَ: الشئ: کم کرنا۔ گھٹانا..... الإِبِلُ: ایک ایک کر کے پانی پر بھیجنا۔ خَاشَهُ (ن) خَوْصًا. بِالرُّمَحِ: نیزہ مارنا..... الشئ: لینا..... الرَّجُلُ: ہجوم میں داخل ہونا۔ خَوْصٌ وَتَخَوَصَ: الشئ: کم کرنا۔ گھٹانا۔ وَتَخَوَصَ الرَّجُلُ: موٹائی کے بعد لاغر ہونا۔ الخَوْصُ: پہلو۔ الخَوْصَانُ: ایک قسم کی گھاس جس میں ترش ہوتی ہے۔ واحد (خَوْصَانَةٌ) خَوْصٌ يَخْوَصُ خَوْصًا: دھنسی ہوئی آنکھ والا ہونا۔ صفت (أَخْوَصُ) مَوْتٌ خَوْصَاءُ جِ خَوْصُ..... الشَّاةُ: تمام جسم میں سفیدی کے ساتھ ایک سفید اور ایک سیاہ آنکھ والی ہونا۔ خَوْصُ: پہلے شرفا کا پھر کیشوں کا اکرام کرنا..... النَّسَاجُ: سونے کے پتروں سے مزین کرنا..... هِ الشَّيْبُ: بڑھا پاشروع ہونا۔ کہا جاتا ہے "خَوْصٌ مَّا عَطَاكَ" یعنی جو کچھ وہ دے اس کو لے لو اگرچہ تھوڑا ہو۔ خَاوَصٌ وَتَخَاوَصَ: آنکھوں کو بھیج کر تیز	الخَوَّاصَةُ: روشن دان۔ پھانگ میں چھوٹا دروازہ۔ الخَوَّخَاءُ وَالخَوَّخَاةُ وَالخَوَّخَاءَةُ: بے وقوف۔ خَوَّذَ الرَّجُلُ: تیز چلنا..... مِنَ الطَّعَامِ شَيْئًا: کچھ حاصل کرنا۔ تَخَوَّذَ الْعَصْنُ: جھکتا۔ الخَوَّودُ: نازک بدن۔ جوان عورت۔ جِ خَوَّوَاتٌ وَخَوَّودٌ. خَاوَذَهُ مُخَاوَذَةً: الی الشئ: ایک کا دوسرے کے بعد آنا۔ کہا جاتا ہے "خَاوَذُونَا إِلَى الْمَاءِ" یعنی ہم واپس آ رہے تھے اور وہ لوگ جا رہے تھے۔ خَاوَذَهُ: بار بار زیارت کے لئے آنا۔ خَاوَذْتَهُ الْحَمِي: غیر متعین وقت پر آنا۔ خَاوَذَ عَنهُ: علیحدہ ہونا۔ تَخَاوَزَ الْقَوْمُ: باہم عہد و پیمان کرنا۔ تَخَوَّذَ: گھمبائی کرنا۔ تم کہتے ہو "تَخَوَّذْنَا بِالسِّيَارَةِ: اس نے ہم سے بار بار ملاقات کی۔ الخَوَّوَذَةُ: خو۔ جِ خَوَّوَذَ. خَوَّذَانُ: النَّاسُ: لوگوں کے خادم۔ جَوَادُ الْحَمْسِيِّ: غیر متعین وقت میں بخار آنا۔ خَاوَزَ (ن) خَوَوَارًا. البَقْرَةُ: آواز کرنا۔ (..... خَوَوَّرُوا خَوَوْرًا) س (خَوَوَّرًا) ست و کمزور ہونا۔ لُوثًا..... قِسْوَةُ الْمَرِيضِ: کم ہونا۔ خَوَوَّرَ: کمزور ہونا۔ ڈھیلا ہونا۔ الأَرْضُ: کثرت بارش کی وجہ سے نرم ہو جانا۔ الرجلُ: کمزوری کی طرف نسبت کرنا۔ أَخَاوَزَهُ: مائل کرنا۔ موڑنا۔ پھیرنا۔ تم کہتے ہو "أَخَاوَزْنَا الْإِبِلَ الی مَوْضِعٍ كَذَا" ہم نے اونٹوں کو فلاں مقام کی طرف پھیر دیا۔ تَخَاوَزَتِ: الْفَيْسْرَانُ: بیلوں کا باہم آواز نکالنا۔ إِسْتَخَاوَزَهُ: مہربانی چاہنا..... الْمَنْزِلُ: صاف کرنا۔
---	--	---

الخَوْط: نرم نئی یا ہری شارخ۔ ج خیطان

خَاف (س) خَوْفًا وَخَيْفًا وَمُخَافَةً

وَجَيْفَةً وَتَخَوَّفَ: گھبرانا۔ احتیاط کرنا۔

ڈرنا۔ کہا جاتا ہے "خَافَهُ وَخَافَ مِنْهُ

وَخَافَ عَلَيْهِ".

صفت (خَائِفٌ) ج خَوْفٌ وَخَيْفٌ وَجَيْفٌ

وَخَائِفُونَ. وَتَخَوَّفَ الْحَقُّ: جن کو مار لینا۔

وَتَخَوَّفَ الشَّيْءُ: تھوڑا تھوڑا کم کرنا۔

تَخَوَّفَ عَلَيْهِ شَيْئًا: خوف کھانا۔

خَوْفُهُ: ڈرانا..... الطَّرِيقُ: ایسا کر دینا کہ

لوگ ڈرنے لگیں۔

أَخَافُهُ إِخَافَةً: ڈرانا۔ أَخَافَ الطَّرِيقُ:

گھبراہٹ میں ڈرنا۔

خَاوْفُهُ: ڈرنے میں مقابلہ کرنا۔ کہا جاتا ہے

"خَاوْفُهُ فَخَفِنْتُهُ أَخْوَفُهُ" میں نے اس سے

ڈرنے میں مقابلہ کیا تو میں غالب رہا یعنی

میں اس سے زیادہ ڈرنے والا نکلا۔

الخَوَاف: شُور۔

الخَاف: بہت ڈرنے والا۔

المُخَافَةُ: چمڑے کا جب جس کو شہد نکالنے والا

پہنتا ہے۔ جس کے ذریعے سے پھلوں کو چنا

جائے۔

الْجَيْفَةُ: ڈرنے والے کی حالت۔ ج

جَيْفٌ.

المُخَوَّفُ: خوفناک۔ کہا جاتا ہے "طَرِيقٌ

مَخَوْفٌ" خوفناک راستہ۔

خَوْقٌ (س) خَوْقًا وَإِنْحَاقًا وَتَخَوَّقَ:

کشاہدہ ہونا۔ صفت (أَخْوَقٌ) مَوْنٌ خَوْقًا

ج خَوْقٌ.

أِنْحَاقٌ إِحْقَاقَةً: ملک میں جانا۔

خَوْقُهُ: کشاہدہ کرنا۔

تَخَوَّقَ: غنہ دور ہونا۔

الخَوْقُ: بابی کا حلقہ۔

الخَوْقُ: کشاہدگی۔ خارش۔

الْأَخْوَقُ: خارش والا۔ کانا۔

مکان (مُنْحَاقٌ) کشاہدہ جگہ۔

تجہائی کرنا..... فَلَانَ عَلَيَّ أَهْلِيهِ: تدبیر

أُمُورٍ كَرْنَا: انتظام کے لئے کافی ہونا۔

خَالَ يَخُولُ خَوْلًا: تجہائی کے بعد غلاموں

والا ہونا۔

خَوْلَةٌ: الشئ: عطا کرنا۔ بخشش کرنا یا مالک

بنانا۔

أَخُولٌ وَأُخُولٌ: ناموں والا ہونا۔

أَخَالٌ. فِيهِ خَالًا مِنَ الْخَيْرِ وَأَخَالَةٌ:

فراست سے بھلائی معلوم کرنا۔

تَخَوَّلَ فِيهِ خَالًا مِنَ الْخَيْرِ وَتَخَوَّلَ:

تَخَوَّلًا وَتَخَوَّلًا: بھلائی معلوم کرنا۔ تَخَوَّلَ

خَالًا: ناموں بنانا..... فَلَانًا: تجہائی کرنا۔

اسْتَخْوَلْتَهُمْ: خادم بنانا۔ اسْتَخْوَلْتُ

وَاسْتَخَالَ فِيهِمْ: ناموں بنانا۔

الخَوُولُ: خولی کی جمع۔ غلام۔ لونڈیاں۔

لفظ واحد ہی جمع کے لئے مستعمل ہے اور بھی

واحد کے لئے (خَائِلٌ) بولتے ہیں۔

الخِصَالُ: ناموں۔ ج أَخْوَالٌ وَأَخْوَالَةٌ

وَأَخْوَالٌ وَخَوْلٌ وَخَوْلَةٌ.

الخَائِلَةُ: ماں کی بہن۔ موسیٰ۔ ج خَالَاتٌ: تم

کہتے ہو "هُمَا أَبْنَاءُ خَائِلَةٍ" یہ دونوں ایک

دوسرے کے خالہ کے بیٹے ہیں۔ الخَالُ: خیر

کا نشان۔ فوج کا جھنڈا۔ چیز کا مالک۔ تم

کہتے ہو "إِنَّا خِصَالٌ هَذَا الْفَرَسِ" میں اس

گھوڑے کا مالک ہوں۔

المَخْوَلِيُّ: مال کا بہتر تنظیم۔ ج خَوْلٌ.

المَخَائِلُ: فَا- الخَوْلُ: مال کا واحد۔ کہا جاتا ہے

"هُوَ خَائِلٌ مَالٌ" وہ مال کا تنظیم و تجہائی ہے

اور بھی حذف ہمزہ سے "خِصَالٌ مَالٌ" کہتے

ہیں۔

الخَوْلَةُ: ہرنی۔

الْأَخْوَالُ: ہر وہ شخص جس کے بہت سے

ناموں ہوں۔ رَجُلٌ مُخْوَلٌ وَمُخْوَلٌ

وَمُخَالٌ شَرِيفٌ مَامُونَ وَاللَّا-

خَاصَّتْ (ن) خَوْمَانًا. الْأَرْضُ: ناموافق

آب و ہوا والی ہونا۔

الْخِصَامُ: روٹی کا کپڑا۔ ج أَخْوَامٌ. أَرْضٌ

(خَاصَّةٌ) ناموافق آب و ہوا والی زمین۔

خَانَةٌ (ن) خَوْنًا وَخِيَانَةً وَمُخَانَةً وَخَانَةٌ

فِي سِي كَذَا: امانت میں خیانت کرنا۔ خَانَةٌ

سَيْفُهُ: اُچھٹ جانا۔ خَانَةُ الدَّهْرِ: آسودگی کو

تختی سے بدل دینا۔ خَانَتُهُ رِجْلَاهُ: چلنے پر

قادر نہ ہونا۔ خَانُ الدَّلْوِ الرِّشَاءُ: ٹوٹ

جانا۔ العهد: توڑ دینا۔ کہا جاتا ہے "خَانَهُ

العَهْدُ وَالْأَمَانَةَ" یعنی اس نے عہد امانت

میں خیانت کی۔ صفت (خَائِنٌ) ج خَوْنٌ

وَخَانَةٌ وَخَوْنَةٌ (..... خَوْفًا) جسم میں کمزوری

اور نظر میں ضعف ہونا۔

خَوْنَةٌ: خیانت کی نسبت کرنا۔

خَوْنَةٌ وَخَوْنٌ مِنْهُ تَخَوْنَةٌ: تھوڑا تھوڑا کر

کے کم کرنا۔ خَوْنَةٌ وَتَخَوْنَةٌ: تجہائی کرنا اور

اسی سے ہے "كُنَّابُ الحُمَى تَخَوْنَةٌ" اس

کو وقت پر بخار آتا ہے۔ تَخَوْنَةُ الدَّهْرِ:

آسودگی کو تختی سے بدل دینا۔

إِخْتَانَةٌ: خیانت کرنا..... الْمَالُ: چرانا۔

إِسْتِخَانَةٌ: خیانت کرنے کا ارادہ کرنا۔

الْخِنَانُ: دکان۔ سرائے۔ ج خِنَانَاتٌ

(ذخیل) اور خان ترکوں کے بادشاہ کا لقب

تھا۔

الْخَائِنَةُ. الْخَائِنُ: كَامُونٌ. الْخَائِنَةُ:

بہت خیانت کرنے والا۔ "تَا" مبالغہ کے

لئے ہے۔ جیسے زَاوِيَةٌ: بہت روایت کرنے

والا۔

الخَوَانُ وَالْجَوَانُ: دسترخوان۔ عوام اس کو

سفرہ کہتے ہیں۔ ج أَخْوَانَةٌ وَخُونٌ.

الخَوْرُونَ وَالْخَوْنَانُ: بہت خیانت کرنے

والا۔

الْخَوَانَةُ: بہت خیانت کرنے والا۔ "تَا"

مبالغہ کے لئے ہے۔ دبر۔

خَوْبُ الدَّارِ تَخَوُّنًا: چرانا..... النجومُ

: بغیر بارش ہوئے غروب ہونا۔

الخَوُّ: بھوک۔ کشاہدہ وادی (..... والخَوُّ)

أَخَامٌ. إِخَامَةٌ. الْفَرَسُ: تین ناگوں پر کھڑا

شہد۔

الخوذة: کشادہ زمین۔

خَوْدَى (ض) خَوْدَاءُ: البَيْتُ: گرنا۔ خالی ہونا

..... رائسہ: کثرت تکبیر سے خون سے خالی

ہونا..... (خَوْدَى وَخَوْدَاءُ) بھوکا ہونا.....

الزَنْدُ: آگ نہ دینا..... (خَيْبًا) النجومُ: بے

بارش کے ہونا۔ مائل بغروب ہونا

(..... خَوْدَى وَخَوْدَاءُ) الشئُ: اُچک لینا۔

خَوْدَى (س) خَيْبًا وَخَوْدَاءُ وَخَوْدَاءُ:

المكان: خالی ہونا۔

خَوْدَى تَخْوِيَةٌ: البعيرُ: بیٹھے میں پیٹ کو

زمین سے اونچا رکھنا..... السطابيرُ: اڑنے

میں بازو لٹکانا۔

أَخْوَى أَخْوَاءَ: الزَنْدُ: آگ نہ دینا.....

النجومُ: بے بارش کے ہونا..... الرجلُ:

بھوکا ہونا..... مَا عِنْدَ فُلَانٍ: سب کچھ لے

لینا (و خَوْدَى) الماشيةُ: بہت موٹا ہونا۔

اخْتَوَى اخْتَوَاءً: اَبَ قَتْلٍ ہونا..... البلدةُ:

عبور کرنا..... مَا عِنْدَ فُلَانٍ: سب کچھ لے لینا

..... الممرسُ: اگلی کچھل تاغوں کے درمیان

نیزہ مارتا۔

الاخْوَى: عقل و ہوش رفتہ۔ مؤنث

خَيْبًا وَخَوْدَاءُ:

الخَوْدَى وَخَوْدَاءُ: کھانے سے پیٹ کا خالی

ہونا۔ دو چیزوں کے درمیان کا فضاء۔ خَوْدَاءُ

الفرسُ: گھوڑے کے اگلے پچھلے پیروں کے

درمیان کا فاصلہ۔

الخَوْدَى: خالی بیت والا۔

الخَوْدَى: نرم و پست زمین۔

خَابَ (ض) خَيْبَةً وَتَخَيَّبَ: محروم ہونا۔

نَا أَمِيدَ ہونا۔ کہا جاتا ہے "خَابَ سَعْيُهُ" یعنی

وہ ناکامیاب ہوا۔

خَيْبَةً وَخَابَةً: محروم کرنا۔

قَدْحٌ (خَيْبًا) آگ نہ دینے والا چمقان۔

المخيبةُ: باعث محرومی۔

خَاتَ (ض) خَيْبًا وَخَيْبًا: آواز کرنا۔

خَارَ (ض) خَيْبًا: صاحب خیر ہونا۔

اللَّهُ لَكَ فِي الْأَمْرِ: بہتری کرنا۔

خَارَ (ض) خَيْبَةً وَخَيْبَةً وَخَيْبًا

وَخَيْبَةً الشئُ عَلَى غَيْرِهِ: فضیلت دینا۔

خَارَهُ: انتخاب کرنا اور اسی سے ہے "أَلْهَمَ"

خَوْلَى" اے اللہ میرے لئے دو امر میں سے

بہتر کا انتخاب کر۔

خَيْبَةً وَخَايِزَةً: فِي الْأَمْرِ وَبَيْنَ الْأَمْرَيْنِ:

پسند کرنے کے لئے اختیار دینا۔ وَخَايِزَةً فِي

الْعِلْمِ فَخَارَةٌ: علم میں مسابقت کرنا اور

غالب رہنا۔

تَخَيَّرَهُ وَابْتَارَهُ: چن لینا۔ انتخاب کرنا۔

ذَخِيرَةٌ: ذخیرہ کرنا۔

اسْتَخَارَ اسْتِخَارَةً: طلب خیر کرنا۔

اللَّهُ: طلب خیر کی دعا کرنا۔

الخَيْسَرُ خَيْسُورٌ: بھلائی نیکی۔ کسی چیز کا

اپنے کمال کو پہنچانا مال..... رَجَّ أَخْيَارًا وَخَيْبَارًا

: بہت نیکی والا اور خیر اسم تفضیل کا صیغہ

(أَخْيَرُ) کا مخفف ہے اور اس کی مؤنث

(خَيْرَةٌ) ہے۔ کہا جاتا ہے "فَلَانَةٌ خَيْرَةٌ

النَّاسِ وَخَيْرُهُمْ"

الخَيْسَرُ: شرف۔ بزرگی۔ کرم۔ اصل۔

بَيْت۔

الخَيْرَةُ: بہت خیر والی۔ ہر چیز سے بہتر۔ رَجَّ

خَيْرَاتٍ:

الخَيْرَةُ وَالخَيْرَةُ: مِنَ الشئِ أَوِ الْقَوْمِ:

أَفْضَلُ۔

الخَيْبَارُ: پسندیدگی۔ کہا جاتا ہے "أَنْتَ

بِالْخَيْبَارِ" یعنی جو چاہو پسند کرو۔ خَيْبَارُ

الشئِ: چیز میں کا افضل۔ الخَيْبَارُ: کھڑی۔

واحد (خَيْبَارَةٌ)

خَيْبَارُ شَيْبَرٍ: امانت۔

الخَيْرِيُّ: ایک قسم کی پھولوں والی نباتات۔

الخَيْرِيَّةُ: عمدی۔ افضل۔ عثمانی سلطنت کا

ایک پرانا نام۔

الخَيْرِ: فِياضٍ: مؤنث خَيْرَةٌ:

الْأَخْيَرُ: زیادہ اچھا۔ مؤنث خَيْرِيٌّ

وَخَوْلَى جِ أَخْيَابِيرُ:

الخَيْسَرِيُّ وَخَوْلَى وَخَوْلَى

وَخَوْلَى: بہت زیادہ اچھا۔ کہا جاتا ہے

"رَجَّ خَيْرِي" الخ: یعنی بہت خیر والا۔

المُخْتَارُ: مَنَعٌ: کہا جاتا ہے "أَنْتَ

بِالمُخْتَارِ" یعنی تم جو چاہو پسند کرو۔

خَاسٌ (ض) خَيْبًا: اللُّحْمُ: بدبودار ہونا

..... البَيْعُ: سرد بازاری ہونا۔ مند ہونا.....

الرَّجُلُ: بھوٹ بولنا۔ ذلیل ہونا..... الرَّجُلُ

أَوِ الدَّابَّةِ: مطبوع کرنا۔

خَاسٌ (ض) خَيْبًا وَخَيْبًا: بالعهد:

بد عہدی کرنا..... بِالسُّوْعِدِ: خلاف وعدگی

کرنا۔

خَيْبَةً: سدھانا۔ ذلیل کرنا۔ کہا جاتا ہے

"خَيْبَسَ الجَمَلُ" یعنی اس نے اونٹ کو سوار

ہو کر سدھایا۔ روکنا۔

الخَيْبَسُ: غم۔ گمراہی۔ بھوٹ۔ خیر۔

الخَيْبَسُ: گنجان درخت۔ شیر کی جھاڑی۔ رَجَّ

أَخْيَاسًا: دو دو۔

الخَيْبَةُ: شیر کے رہنے کی جگہ۔ رَجَّ خَيْبَسًا:

المُخَيَّبَسُ وَالمُخَيَّبَسُ: جانور کے

سدھانے کی جگہ۔ قید خانہ۔

خَاسٌ (ض) خَيْبًا: مافی الوعاء:

نکالنا۔

الخَيْبَسُ: کتاں کا کھر درا کپڑا۔ رَجَّ خَيْبُوشًا

وَخَيْبًا: واحد (خَيْبَةُ) کمینہ آدی۔

الخَيْبَاشُ: کتاں کا کھر درا کپڑا بیچنے والا۔

خَاصٌ (ض) خَيْبًا: کم ہونا۔ صفت

(خَائِصٌ)

خَيْصٌ (س) خَيْبًا: ایک بڑی ایک چھوٹی

آکھ والا ہونا۔ صفت (أَخْيَصُ) مؤنث

(خَيْصَاءُ)

الخَيْصُ: تھوڑی چیز۔ کہا جاتا ہے "نَلْتُ مِنْهُ"

خَيْصًا خَائِصًا" میں نے اس سے تھوڑی چیز

حاصل کی۔

الخَيْصِيُّ: تھوڑی چیز۔ کہا جاتا ہے "فسي

السُّرْعَى خَيْصِي مِنَ العُشْبِ" چراگاہ میں

تھوڑی سی گھاس ہے۔

الخَيْصَانُ: تھوڑا مال۔
خَاطُ (ض) خَيْطًا. الثوبُ: سینا۔ صفت
فَاعِلٌ (خَائِطٌ وَخَاطٌ وَخَيْطٌ) اور صفت
مفعول (مَخِيْطٌ وَمَخِيْطُطٌ)..... الخَيْطَةُ:
زمین پر ریٹنا اور اسی سے ہے "هَذَا مَخِيْطٌ
السَّحِيَّةُ" یہ ساپ کے ریٹنے کی جگہ ہے۔
خَاطٌ إِلَيْهِ خَيْطَةٌ: ایک ہی دفعہ یا جلدی سے
گزر جانا۔

خَيْطُ الشَّيْبِ فِي رَأْسِهِ: بڑھا یا شروع
ہونا۔

تَخَيُّطٌ. رَأْسُهُ بِالشَّيْبِ: بڑھا یا شروع
ہونا۔

إِخْطَاطٌ وَإِخْطَطَى. إِلَيْهِ: ایک ہی دفعہ یا
جلدی سے گزر جانا۔

السَّخِيْطُ: مَسٌّ۔ دھاگہ۔ مَخِيْطُطٌ
وَمَخِيْطُطَةٌ وَأَخْيَاطٌ..... مِّنَ النَّعَامِ: شتر مرغ
کاریوڑ۔

مِنَ الْجَرَادِ: ٹڈیوں کا دل۔ مَخِيْطَانٌ.

السَّخِيْطُ الْأَبْيَضُ: صَبْحٌ كِى سَفِيْرِي. السَّخِيْطُ
الْأَسْوَدُ: رَاتٌ كِى سِيَاهِي. السَّخِيْطُ مِّنَ
الرَّقِيْبَةِ: حرام مغز۔ کہا جاتا ہے "جَسَاحَشُ
عَنَ خَيْطٍ رَّقِيْبَةٍ" اس نے اپنے خون سے
مدافعت کی۔ خَيْطٌ بَاطِلٌ: تر مرے یعنی وہ
چیز جو گرمی کے زمانہ میں دوپہر میں کٹڑی کے
جالے کی مانند فضا میں اُترتی ہوئی معلوم ہوتی
ہے۔

السَّخِيْطُ وَالْخَيْطِيُّ. مِّنَ النَّعَامِ أَوْ الْجَرَادِ:
شتر مرغ کاریوڑ۔ ٹڈیوں کا دل۔

الْخَيْطَاةُ: درزی کا پیشہ۔
الْخَيْطَاةُ: درزی۔

الْخَيْطَاةُ وَالْمَخِيْطِيُّ: سوئی۔

خَيْفٌ (س) خَيْفًا: ایک نیلگوں اور ایک
سرگیں آنکھ والا ہونا۔ صفت
(أَخْيَفٌ) مَوْنَتْ خَيْفَاءُ جَ خَيْفٌ.

خَيْفٌ. عَنِ الْقَتْلِ: روگردانی کرنا۔

..... الْقَوْمِ: کسی جگہ میں اُترنا۔ خَيْفَسَتْ
الْمَرْأَةُ بِأَوْلَادِهَا: اخیانی بھائیوں کی ماں

ہونا۔

تَخَيَّفَ. الْوَأْنَا: مختلف رنگوں والا ہونا۔

الْمَخِيْفُ: دامن کوہ میں ہر بلند و پست زمین۔
پانی بہنے کی جگہ سے بلند جگہ۔ قھن کی کھال۔
الْمَخِيْفَةُ: چھری۔ شریک جھاڑی۔

الْمَخِيْفَاءُ: کشادہ تھنوں والی۔ مَجَ خَيْفَاوَاتٌ
وَمَخِيْفٌ.

الْأَخْيَافُ: مختلف لوگ۔ کہا جاتا ہے ہم
إِخْوَةَ أَخْيَافٍ أَوْ مَوْنُو أَخْيَافٍ" یعنی ان کی
ماں ایک ہے اور باپ مختلف ہیں۔

السَّخِيْفَانُ: لوگوں کی کثرت۔ مختلف رنگوں
والی ٹڈی۔ ایک قسم کی پہاڑی گھاس۔ واحد
(مَخِيْفَانَةٌ)

خَيْالٌ يَخِيْلُ خَيْلًا وَخَيْلًا وَخَيْلًا وَخَيْلَةً
وَخَيْلَةً وَخَيْلَانًا وَخَيْلُوْلَةً وَمَخِيْلَةً
وَمَخِيْلَةً الشَّيْءِ: خیال کرنا۔ گمان کرنا اور
واحد مَتَكَلِّمٌ مَضَارِعَ كَاصِيْنَةٍ إِخَالًا وَأَخَالًا: اور
بکسر ہمزہ زیادہ فصیح ہے۔

خَيْلٌ تَخِيْلًا وَتَخِيْلًا. عَلَيْهِ: تہمت لگانا
اور (خَيْلٌ تَخِيْلًا) السَّحَابِ: گرجنا چمکانا
اور برسنے کے لئے تیار ہونا..... فِيهِ الْخَيْزُ:
معلوم کرنا..... عَنِ الْقَوْمِ: کمزور و بزدل
ہونا۔

خَيْلٌ. إِلَيْهِ وَلَهُ أَنَّهُ كَذَّابٌ: توہم ہونا کہ وہ ایسا
ہے۔

خَائِلَةٌ: فخر کرنے میں مقابلہ کرنا۔

خَائِلَتِ السَّحَابَةَ: بارش کی اُمید دلانا۔

أَخْيَلَتِ السَّمَاءَ: برسنے کے لئے تیار
ہونا۔

..... النَّاقَةُ: تھنوں میں دودھ والی ہونا۔

(..... وَأَخَالٌ) الْقَوْمِ: ایسے بادل کو دیکھنا
جس کے متعلق خیال ہو کہ برسے گا۔ (أَخْيَلُ
وَأَخْيَالٌ) الْمَكَانَ بِالْبَنَاتِ: ہرا بھرا ہونا۔

أَخَالٌ عَلَيْهِ الشَّيْءُ: دُشْوَارٌ وَشَتِيْرٌ ہونا۔
تَخَيَّلَتِ السَّحَابَةَ: بارش کی علامتیں معلوم
ہونا..... الرَّجُلُ: تکبر کرنا..... لَهُ أَنَّهُ كَذَّابٌ:
توہم ہونا کہ وہ ایسا ہے..... فِيهِ الْخَيْزُ:

معلوم کرنا..... ہ: فراست سے معلوم
کرنا..... عَلَيْهِ: پسند کرنا اور فراست سے خیر
معلوم کرنا۔

تَخَيَّلَ تَخَيْلًا وَتَخَيْلًا وَتَخَيْلًا وَتَخَيْلَةً
اور اگر کز چلنا۔

إِسْتَخَالَ السَّحَابَةَ: برستا ہوا خیال کرنا۔

النَّخَالُ: مِصٌّ۔ بادل جس سے بارش ضروری

ہو۔ بے بارش کا بادل۔ بجلی۔ غرور۔ بڑا

پھاڑ۔ جھنڈا۔ نرم کپڑا۔ سختی و فیاض آدمی۔

مغرور۔ گمان و توہم۔ بے بیوی والا۔ کمزور

دل یا کمزور جسم والا۔ چھوٹا نیلہ۔ گھوڑے کی

گام۔ کفن۔ بدن کا تل۔ مَجَ خَيْلَانٌ.

السَّخِيْلُ: مِصٌّ۔ گھوڑوں کا گروہ۔ مَجَ خَيْوِلٌ
وَأَخْيَالٌ اور مجازاً خیل کا اطلاق سواروں پر

بھی ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے "انسی بخَيْلِهِ
وَرَجُلِهِ" وہ اپنے سوار اور پیادوں کے ساتھ

آیا۔

السَّخِيْلُ: بِنْدٌ۔

السَّخِيْلَانُ: ایک دریائی جانور ہے جس کا

نصف حصہ انسان جیسا اور نصف حصہ مچھلی کا

ساہوتا ہے۔

السَّخِيَالُ: گمان و ہم۔ مَجَ أَخْيَلَةٌ
(..... وَالْخَيْالَةُ) وہ صورت جو خواب میں نظر

آئے۔ انسانی شکل۔ ڈراوا۔ یعنی وہ

(کپڑے اور لکڑی کی انسان نما) چیز جس کو

کھیتوں میں کھڑا کر دیتے ہیں چوپائے اور

پرندے اس کو انسان خیال کرتے ہیں۔

الْمَخَائِلُ: مغرور۔ مَجَ خَائِلَةٌ.

الْمُخَيَّلَةُ وَالْخَيْالِيَّةُ: قوت خیالیہ۔

الْأَخْيَالُ مَوْنَتْ خَيْلَاءَ. مَجَ خَيْلٌ وَأَخْيَالٌ.
(وَالْمَخِيْلُ وَالْمَخِيْلُوْلُ) بدن میں تل والا۔

الْأَخْيَالُ: ایک شخص پرندہ کا نام۔

الْأَخْيَالُ: مغرور۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ
أَخْيَالٌ".

الْخَيْالُ: شہسوار۔ گھوڑے والا۔ مَجَ خَيْالَةٌ.

الْخَيْلَاءُ. وَالْخَيْلَاءُ وَالْخَيْلَةُ: تکبر و غرور۔

السَّحَابَةُ (الْمُخَيَّلَةُ وَالْمَخِيْلَةُ وَالْمُخَيَّلَةُ

الخمام: ہر وہ چیز جس میں ابھی ہاتھ نہ لگا ہو جیسے ہیرا جو ابھی صاف نہ کیا گیا ہو۔ پتھر جو تراشا نہ گیا ہو۔ چمرا جس کی دباغت نہ ہوئی ہو۔ کپڑا جو ابھی دھویا نہ گیا ہو۔ روئی کا بنایا ہوا۔ جِ أَخْوَامِ. الخمام: موی۔
 الخمامة: تروتازہ گھاس۔ جِ خَمَامٍ وخمامات.
 الخمیمة: ڈیرو۔ ہر وہ مکان جو اینٹ پتھر اور مٹی وغیرہ سے نہ بنا ہو۔ جِ خَمِيمٍ وخميام
 وخميمات وخميم. الخميم: موی۔
 الخيام: خیمہ میں رہنے والا (..... الخيمى)
 خيم بنانے والا یا بیچنے والا۔
 الخميم: وہ جگہ جہاں خیمے نصب ہوں۔

..... رجله: پاؤں اظہ ۲۔
 خميم: خیمہ لگانا۔ خيم: میں اقامت کرنا.....
 بالمكان: اقامت کرنا۔ خيمت البقرة: اپنے تھان
 خیمہ کی مانند ہونا۔ خيمت البقر: اپنے تھان
 پر کھڑے رہنا..... السريخ فى الثوب:
 کپڑے میں خوشبو کو بسانا۔
 اخام اخامة و اخيم اخياما. الخيمة: نصب
 کرنا..... الفرس: تین ناگوں پر کھڑا ہونا۔
 تخيم. المكان وبالمكان وفيه: جگہ میں
 اپنا خیمہ نصب کرنا۔ تخيمت الريح الطيبة
 بالثوب وفيه: بھڑک اٹھنا۔
 الخيم: طبیعت۔ خصلت۔ تلوار کا جوہر۔

والمختالة بادل جس کے برسنے کی امید ہو۔
 المخيل: خیر سے ڈرانے والا۔ كلام
 مخييل: دشوار کلام۔
 السخائل. من السخب: بارش سے
 ڈرانے والا بادل اور اسی سے ہے "ظهورت
 فيه سخائل النجابة" اس کے اندر شرافت
 کی علامتیں ظاہر ہوتیں۔
 أرض (مختيلة ومختاللة)
 خمام يخيم خيما و خيماناً و خيوماً
 و خيومة و خياماً و خيومة: اقامت کرنا
 عنه: بزدل ہونا۔ روگردانی کرنا.....
 القوم فى القتال: جنگ میں کامیاب نہ ہونا



د: الدال: بنیادی حروف میں سے آشواں
حرف ہے۔

ذَاب (ف) ذَابًا وَذَابًا وَذُؤُبًا هِيَ
الْقَمَلُ: لگا تار جانفشانی سے کرنا۔ صفت
(ذَابِبٌ وَذُؤُوبٌ). (ذَابًا وَذَابًا) الدابة

تیز یا تلنا..... دھکا کرنا۔
أَذَابُهُ إِذَاتًا: تھکانا۔ لگا تار کوشش کرنے کا

حاجت مند بنانا۔
الذَّابُ وَالذَّابُ: مص۔ عادت۔ حالت۔

الذَّابَانِ: رات دن۔
الذَّابِ: تھکا ماندہ۔

ذَات (ف) ذَاتًا: جو جھل ہوتا..... الثوب:
میلا ہونا..... الثوب: میلا کرنا..... الطعام:

کھانا۔
الذَّاتُ: سخت کمیز۔

الذَّائِمُ: باندی۔ لومڑی۔ ج ذَاتِ اِبْنِ
ذَاتًا: بے وقوف۔

ذَادًا ذَادًا وَذِنْدَاءً: تیز دوڑنا..... فِي آثَرِهِ:
کھوج لگانے کے لئے پیچھے جانا..... الشئ:

وہاں چلنا۔ حرکت دینا۔ ٹھہرانا..... الْقَوْمُ: باہم
ہجوم کرنا۔

تَدَاذًا: ہلنا۔ ٹھہرنا..... فِي مَشِيهِ: لڑکھڑاتا۔
..... عَنْ قَرِيبِهِ: گرنا۔

الذَّادُ وَالذَّاءُ وَالذَّادَةُ وَالذَّادَةُ: مِنْ
الذَّائِمِ: سخت تاریک رات۔ ج الذَّادِي.

الذَّارُ صِنِيٌّ: دار چینی۔
ذَنْص (س) ذَاصًا: اترنا..... البعيرُ: موٹا
وہر گوشت ہوتا۔

الذاص: موٹا یا۔

ذَاظ (ف) ذَاظًا. الإنَاءُ: بھرتا.....
السرجلُ: باوجود شکم سیری کے کھانے پر مجبور

کرنا۔ غمزدانا۔ گلا گھونٹنا..... القَرْحَةُ: دبا
کر نچوڑنا۔

ذَاظ (ف) ذَاظًا: موٹا ہونا۔
ذَال (ف) ذَالًا وَذَالًا وَذَالِي: ست چلنا۔

(..... لَهُ ذَالًا وَذَالَاتًا): فریب دینا۔
ذَاء لَسَهُ مُدَاءٌ لَهٗ: دھوکا دینا۔ تیز چلنے میں

مقابلہ کرنا۔
ذُوَالَّةٍ لَوْمَزِيٌّ كَلِمَةً لَعْنَةً: علم جنس ہے۔

الذَّالُ وَالذَّيْلُ وَالذُّوْلُ وَالذَّالَانِ: گیدڑ۔
بھیڑیا۔ نیولے کی مانند ایک جانور۔

الذُّوْلُ: مصیبت۔ ج ذَالِيْلٌ کہا جاتا ہے
"وَقَعَ الْقَوْمُ فِي ذُوْلُولٍ": لوگ مصیبت

میں پڑ گئے۔
ذَام (ف) ذَامًا. السَّخَانُطُ: سہارا دینا.....

الرجلُ: گود کر سوار ہونا۔ تَدَامَةُ السَّمَاءِ:
دُحَانِپ لِينًا۔ تَدَامَتِ السَّمَاءُ: لگا تار

برستا۔
تَدَاءَ تَمَّتْ. عَلَيْهِ الْهُمُومُ وَالْأُمُورُ: ہجوم

کرنا۔
الذَّامُ: مص۔ ہر وہ چیز جو ہمیں چھپالے۔

الذَّامَةُ: سمندر۔
ذَايٌ يَذَاوُ وَيَذَاوِي ذَاوًا وَذَابًا. الذَّنْبُ

لِلصَّيْدِ: دھوکے سے شکار کرنا۔
الذَّائِمُ: سینے کی پٹلیوں کے ملنے کی جگہ۔ ج

ذَائَات.

(اِبْنُ ذَائِمَةٍ): کوا۔

الذَّائِمَةُ: وائی جنائی۔ ج ذَائِمَات.

ذَب (ض) ذَبًا وَذَبِيًّا: بریگنا۔ ہاتھوں یا

پیروں کے بل چلنا۔ کہتے ہیں "هُوَ أَكْذَبُ
مِنْ ذَبِّ وَذَرَجٍ": وہ زندوں اور مردوں

سے زیادہ جھوٹا ہے..... السَّقْمُ فِي الْجَسْمِ
أَوْ الْبَلِي فِي الثُّوبِ: بیماری کا جسم میں اور

کہنگی کا کپڑے میں سرایت کرنا، اثر کرنا
..... السَّجْدُ: نہر کا جاری ہونا اور کہا جاتا

ہے "ذَبْتِ عَقَارِيهٗ": اس نے تفرقہ اندازی
کے لئے چغل خوری کی۔ ذَبُّ الشَّيْخِ:

آہستہ چلنا۔
أَذَبَ. الصَّيِّ: ہاتھ پیروں پر چلانا..... اِلَى

أَرْضِهِ جَذُولًا: نہر جاری کرنا کہا جاتا ہے
"أَذَبَ الْبِلَادَ": اس نے ملک کو عدل و

انصاف سے بھر دیا۔ و"هُوَ يَذِبُ عَلَيْنَا
عَقَارِيهٗ وَيُحْشِرُ عَلَيْنَا آقَارِيهٗ": یعنی وہ ہم

سے دشمنی کرتا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے۔
الذَّبُّ: ریجھ۔ ج أذَابَ وَذَبِيَّةٌ: مؤنث

ذَبَّةٌ. الذَّبُّ الْاِكْتِسَرُ وَالذَّبُّ لَصَغْرُ.
بنات النعش: کے ستاروں کا مجموعہ۔ کہا جاتا

ہے "رَكِبَ ذَبُّ فُلَانٍ أَوْ ذَبَّةُ فُلَانٍ": اس
نے فلاں کا طریقہ اختیار کر لیا۔

الذَّبَّةُ: تیل وغیرہ کا برتن۔ بط کی شکل کا شیشہ
کا برتن۔ بہت ریتی جگہ۔ ج ذَبَاب: منہ کا

زواں۔ ج ذَبُّ: کہا جاتا ہے "لَيْسَ فِي
الذَّارِ ذَبِيٌّ أَوْ ذَبِيٌّ": یعنی گھر میں کوئی نہیں۔
اس کا استعمال صرف نفی کی صورت میں ہوتا

<p>فَدَابِرٌ. القوم: باہم دشمنی کرنا۔ اختلاف کرنا اور قطع تعلقات کرنا۔</p> <p>اِسْتَدْبَرُوهُ: پشت دینا۔ اختیار کرنا اور جستجو کرنا۔</p> <p>..... الامر: غیر متوقع طور پر نتیجہ کا سامنے آنا۔</p>	<p>ہے "فَلَانٌ يَصُونُ دِينَا جَعَلَهُ": فلاں اپنی آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ و "فَلَانٌ يَسْذُلُ دِينَا جَعَلَهُ": فلاں اپنی آبروریزی کرتا ہے۔</p> <p>"دِينَا جَعَلَهُ الْكِنَاب": کتاب کا دیباچہ۔</p> <p>الدِينَا جَعَلَهُ رَحَار: دونوں رخسار۔ دِينَا جَعَلَهُ الْوُجْه: چہرہ کی رونق۔ الدِينَا جَعَلَهُ: جوان اُدنی۔</p>	<p>السدب: زرواں۔ بال کی کثرت۔ گائے کا نومولود بچہ۔</p> <p>السدباب: تیز رنگنے والا۔ ناتوانی سے آہستہ چلنے والا۔ مؤنث ذبائبة۔</p> <p>السدبانية: ایک آلہ کا نام جس کو محاصرہ میں استعمال کیا کرتے تھے اور اس کے جوف میں داخل ہو کر قلعہ کی دیوار کی جڑ میں پہنچ جاتے تھے اور جوف میں رہتے ہوئے نقب لگاتے تھے۔ ج ذبائبات۔ الذبانية: ٹینک یعنی مسلح جنگی موٹر۔</p>
<p>السدبر: مص۔ شہد کی مکھیوں یا بجزوں کا جھنڈ۔ واحد (ذبرة) ج اذبر و ذبؤر: بہت مال۔ موت۔ پہاڑ۔ سمندر میں جزیرہ کی مانند زمین کا ٹکڑا جس پر جوار بھانا ہوتا ہو۔ کسی چیز کے پیچھے۔ تم کہتے ہو "جسعل كلالسى ذببر اذنبه": اس نے میری بات سے غفلت کی اور متوجہ نہیں ہوا۔</p>	<p>ذنبج: سر جھکانا اور پیٹھ پھکانا۔ ذلیل ہونا۔</p> <p>فهی نبيته: گھر میں سے رہنا۔</p> <p>ذنبج: بمعنی ذنبج۔</p> <p>ذبذب ذبذبة. الحافر على الارض: ٹاپ سے آواز لگانا۔</p>	<p>السدبب: مص۔ رنگنے والا۔ چھوٹا کیرا جو پانی میں کھیلتا رہتا ہے۔</p> <p>الذبذب والذبذب: موزی۔ چغل خور۔ گہرا عار۔ ہر موزی تازی چیز۔</p> <p>الذباية السداب: کامؤنث۔ ہر رنگنے والا جانور۔ سواری کا جانور۔ بوجھ لادنے کا جانور۔ مذکر و مؤنث دونوں کے لئے مستعمل ہے اور اس میں تاوحدت کی ہے۔ ج ذواب: تصغیر (الذوابة) الذباب: کدو۔ واحد (ذبائبة) الذبان: زرواں۔ بالوں کی کثرت۔</p>
<p>السدبر: بمعنی الذببر: بہت مال۔ واحد ہے مفرد اور جمع دونوں کے لئے ہے۔ کہا جاتا ہے "مال ذببر و اموال ذببر"۔</p> <p>الذببر والذببر: من كل شئ: پچھلا حصہ۔ ج اذبار. ذبر الصلوة: نماز کا آخر۔ کہا جاتا ہے "جاء ذببر الشهر وفي ذببره وعلی ذببره واذبار الشهر وفي اذبارہ": وہ مہینہ کے آخر میں آیا۔ ذببر البيت: گھر کا گوشہ۔</p> <p>السدبرية: انجام۔ لڑائی میں شکست۔ قابل کاشت زمین۔ ج ذبار۔</p>	<p>ذبذب ذبذبة. الحافر على الارض: ٹاپ سے آواز لگانا۔</p> <p>ذببر (ن) ذببرا وذببورا. السهار او الصيف: گزر جانا۔ ختم ہونا۔ الرجول: مرنا۔ پشت پھیرنا۔ بوزھا ہونا۔ السربخ: بچھوئی رنخ پر ہو جانا۔ (ذببرا السهم الهدف: نشانہ سے بٹ جانا۔ الكتاب: نقل کرنا۔ بالشئ: لے جانا۔ ذببہ: آنا۔ الحديث عن فلان: کسی کے مرنے کے بعد اس کی بات بیان کرنا۔</p>	<p>الذباب: بہت بالوں والا۔ بہت روئیں والا۔ مؤنث ذبابة: بہت بالوں والا اونٹ۔ الذبذب: جاری ہونے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "مذبذب السيل": سیلاب بہنے کی جگہ۔ و "مذبذب السمل": جیوتیوں کے چلنے کی قطار۔</p> <p>أرض (مذبذبة): بہت رچیوں والی زمین۔ ذبابة (ف) ذبابة: لاشی سے مارنا۔ الشئ: ساکن ہونا۔</p>
<p>الذببر: زخمی پیٹھ والا جانور۔</p> <p>الذببرية: جہت پشت۔ کہا جاتا ہے "ليس لهذا الامر قبيلة ولا ذبيرة": یعنی اس معاملہ میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں ہے۔</p> <p>الذبيرة: جانور کی پیٹھ کا زخم جو کجاوہ وغیرہ سے ہو جائے۔ ج ذبر و اذبار۔</p> <p>الذبار: ہلاکت۔</p>	<p>ذببر (س) ذببرا. البعير: کجاوہ وغیرہ سے زخمی پیٹھ والا ہونا۔ صفت (ذببر) ذببرا. الامر: غور کرنا۔ انجام سوچنا۔ انتظام کرنا۔ الحديث: دوسرے سے روایت کرنا۔ علي هلاجه: کسی کی ہلاکت کے لئے حیلہ اور کوشش کرنا۔</p>	<p>أرض (مذبذبة): بہت رچیوں والی زمین۔ ذبابة (ف) ذبابة: لاشی سے مارنا۔ الشئ: ساکن ہونا۔</p> <p>ذبابة. وذبابة عليه: چھپانا۔ پوشیدہ کرنا۔ ذبذبة (ن) ذبذبا وذبذبة: نقش کرنا مزین کرنا۔ خوبصورت بنانا۔ الطيلسان: ریشمی کپڑا لگا کر مزین کرنا۔</p>
<p>الذببار: کھیتوں کی نالیاں۔ لڑائیاں۔ شکستیں۔</p> <p>الذببؤر: بچھوئی ہوا۔</p> <p>الذببوس: من الرجل: پیچھے۔ کہا جاتا ہے "هو لا يعرف قبيلة من ذبيرة": وہ اپنے آگے پیچھے کو نہیں پہچانتا۔ زیادتی، جہالت کے لئے بطور کنایہ کے بولتے ہیں۔ گناہ۔ کہا جاتا ہے "عرف قبيلة من ذبيرة": اس نے</p>	<p>ذابور مذابرة وذبارة: مرنا۔ ہوشی کرنا۔ اذببر. البعير: زخمی پیٹھ والا ہونا۔ اذببره القصب: پیٹھ زخمی کرنا۔ فلاں: مرنا۔ بچھوئی ہوا میں داخل ہونا۔ عنہ: پیٹھ پھیرنا۔ ہ: پیچھے کرنا۔ اذببر الذببا: اقبال کا ختم ہونا۔ الامر: ختم ہونا۔ الرجل: بدھ کے دن سفر کرنا۔</p> <p>تذببر. الامر: انجام سوچنا۔</p>	<p>الذباب: بہت بالوں والا۔ بہت روئیں والا۔ مؤنث ذبابة: بہت بالوں والا اونٹ۔ الذبذب: جاری ہونے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "مذبذب السيل": سیلاب بہنے کی جگہ۔ و "مذبذب السمل": جیوتیوں کے چلنے کی قطار۔</p> <p>أرض (مذبذبة): بہت رچیوں والی زمین۔ ذبابة (ف) ذبابة: لاشی سے مارنا۔ الشئ: ساکن ہونا۔</p> <p>ذبابة. وذبابة عليه: چھپانا۔ پوشیدہ کرنا۔ ذبذبة (ن) ذبذبا وذبذبة: نقش کرنا مزین کرنا۔ خوبصورت بنانا۔ الطيلسان: ریشمی کپڑا لگا کر مزین کرنا۔</p> <p>الذبيبا ج: ریشمی کپڑا۔ ج ذبابج وذبابج واحد (ذبيبا جة) و (الذبيبا جة): چہرہ۔ کہا جاتا</p>

<p>طاعت و معصیت میں تمیز کرنی۔ الذَّبُّورُ: شکل و صورت۔ ج ذبایبر۔ الذَّبُّورَةُ: پتھروں کو ہموار کرنے کا اوزار۔ فتح لفظ "الضَّفَّوْرُ" ہے۔</p>	<p>السَّنْبَسُ: ہر کالی چیز۔ بہت تعداد۔ کہا جاتا ہے "فَالْذَّبْسُ" بہت مال۔ الذَّبْسُ: پکایا ہوا گاڑھا شیرہ۔ الذَّبَّاسُ: شیرہ بنانے والا یا بیچنے والا۔ الذَّبْسُ: شہد۔ جھوڑا شیرہ۔ الذَّبْسَةُ: سیاہی مٹی ہوئی سرخی۔</p>	<p>السَّنْبَسُ: چاند کی ایک منزل کا نام جو برج ثور کے پانچ ستاروں پر مشتمل ہے۔</p>
<p>السَّنْبَسُ: معروف رقص۔ ذَبَلُ (ن) ذَبَلًا وَذَبُولًا: الارض: کھاد ڈالنا..... الشئُ: درست کرنا۔</p>	<p>السَّنْبَسُ وَالذَّبْسُوسُ: آہنی گرز۔ ج ذبایبس۔ ذَبَسَ (ن) ذَبْسًا: الشئُ: چھلکانا تارنا..... الطغَامُ: کھانا۔</p>	<p>السَّنْبَسُ: فالج۔ تالچ۔ ہر چیز کا آخر۔ اصل۔ گزرا ہوا۔ جیسے "أَمْسَ الذَّبِيرُ": گزشتہ اور یہ تاکید کے لئے ہے جیسے "زَانِهٌ بَعِيْنِي": بولتے ہیں۔ نشانہ پر نہ لگنے والا تیر۔ جوئے کے تیروں میں سے ناکامیاب تیر۔ کہا جاتا ہے "مَبْسُ فِي الْكُنَانَةِ غَيْرُ الذَّبِيرِ": ترکش میں سوائے داہر کے کچھ باقی نہ رہا اور کہتے ہیں "قَطَعَ اللَّهُ دَابِرَهُمْ": اللہ ان کی جز کو کاٹ دے۔</p>
<p>ذَبَلَهُ (ن ض) ذَبَلًا: بالعصا: لگا تار لاشی سے مارتا۔ کہا جاتا ہے "ذَبَلْتُهُ الذَّبُولُ": اس پر مصائب پڑے یا اس کی ماں نے اسے گم کر دیا۔</p>	<p>الذَّبْسُ: گھر کا سامان۔ ردی سامان۔ مَنَكَاثُ (مذَبُّوْشُ): وہ جگہ جہاں کی پیداوار کو ٹڈیوں نے کھا لیا ہو۔</p>	<p>السَّنْبَسُ: نماز جو آخری وقت میں ادا کی جائے۔</p>
<p>ذَبَلُ (و ذَبَلُ) اللُّقْمَةُ: بزاز القمہ لینا..... الشئُ: اُٹھلیوں سے جمع کرنا۔</p>	<p>ذَبَغَ (ف ن ض) ذَبَغًا وَدِبَاغًا وَدِبَاغَةً: الحجلد: کھال کو پکانا۔ الذَّبَغُ: کھال کا نرم ہونا اور اس سے رطوبت اور بدبو کا زائل ہونا۔</p>	<p>السَّنْبَسُ: نماز جو آخری وقت میں ادا کی جائے۔</p>
<p>ذَبَلُ (س) ذَبَلًا: مومتا ہونا۔ الذَّبَلُ: بمس۔ پلگ۔ معصیت۔ اولاد کی موت۔ تالا۔ ج ذبُول۔</p>	<p>السَّنْبَسُ: ہر چیز کا ٹکڑا۔ کلہاڑی کا سوراخ۔ ج ذَبَلُ وَذَبَلُ۔</p>	<p>السَّنْبَسُ: نماز جو آخری وقت میں ادا کی جائے۔</p>
<p>الذَّبَلَةُ وَالدَّبِيْلَةُ: معصیت۔ پیٹ کی ایک بیماری۔ پیٹ کا پھوڑا۔ الذَّبَالُ: کھاد۔</p>	<p>السَّنْبَسُ: ہر چیز کا ٹکڑا۔ کلہاڑی کا سوراخ۔ ج ذَبَلُ وَذَبَلُ۔</p>	<p>السَّنْبَسُ: نماز جو آخری وقت میں ادا کی جائے۔</p>
<p>الذَّبُولُ: عورت جس کا بچہ مر گیا ہو۔ ہلاکت و معصیت۔</p>	<p>السَّنْبَسُ: ہر چیز کا ٹکڑا۔ کلہاڑی کا سوراخ۔ ج ذَبَلُ وَذَبَلُ۔</p>	<p>السَّنْبَسُ: نماز جو آخری وقت میں ادا کی جائے۔</p>
<p>الذَّبُولُ: زرسور۔ چھوٹے قد کا گدھا۔ الذَّبُولُوْمَابِسِي: ڈپلومیسی یعنی نمائندہ حکومت اپنی حکومت کے مفادات کے تحفظ کے لئے موزوں طرز عمل اختیار کرے۔</p>	<p>السَّنْبَسُ: ہر چیز کا ٹکڑا۔ کلہاڑی کا سوراخ۔ ج ذَبَلُ وَذَبَلُ۔</p>	<p>السَّنْبَسُ: نماز جو آخری وقت میں ادا کی جائے۔</p>
<p>ذَبَيْتُ: الارض: چھوٹی ٹڈیوں کا بھتیق کو کھا جانا۔ صفت (مذَبِيْبَةٌ وَمَذَبُوْبَةٌ)</p>	<p>السَّنْبَسُ: ہر چیز کا ٹکڑا۔ کلہاڑی کا سوراخ۔ ج ذَبَلُ وَذَبَلُ۔</p>	<p>السَّنْبَسُ: نماز جو آخری وقت میں ادا کی جائے۔</p>
<p>أَذْبَتُ: الارض: بکثرت چھوٹی ٹڈیوں والی ہونا۔</p>	<p>السَّنْبَسُ: ہر چیز کا ٹکڑا۔ کلہاڑی کا سوراخ۔ ج ذَبَلُ وَذَبَلُ۔</p>	<p>السَّنْبَسُ: نماز جو آخری وقت میں ادا کی جائے۔</p>
<p>الذَّبِي: چھوٹی ٹڈی۔ چھوٹی۔ واحد (ذَبَاة)</p>	<p>السَّنْبَسُ: ہر چیز کا ٹکڑا۔ کلہاڑی کا سوراخ۔ ج ذَبَلُ وَذَبَلُ۔</p>	<p>السَّنْبَسُ: نماز جو آخری وقت میں ادا کی جائے۔</p>
<p>ذَبْتُ (ن) ذَبًا: الضَّيْبُ: کسی چیز سے شکار کرنا۔ ذَبْتُ: تکیف وہ مار مارنا۔ ہٹا دینا۔ پھراؤ کرنا۔</p>	<p>السَّنْبَسُ: ہر چیز کا ٹکڑا۔ کلہاڑی کا سوراخ۔ ج ذَبَلُ وَذَبَلُ۔</p>	<p>السَّنْبَسُ: نماز جو آخری وقت میں ادا کی جائے۔</p>
<p>ذَبْتُ (س) ذَبًا: به: چمٹنا۔</p>	<p>السَّنْبَسُ: ہر چیز کا ٹکڑا۔ کلہاڑی کا سوراخ۔ ج ذَبَلُ وَذَبَلُ۔</p>	<p>السَّنْبَسُ: نماز جو آخری وقت میں ادا کی جائے۔</p>
<p>ذَبَقَهُ: لاسہ سے شکار کرنا۔</p>	<p>السَّنْبَسُ: ہر چیز کا ٹکڑا۔ کلہاڑی کا سوراخ۔ ج ذَبَلُ وَذَبَلُ۔</p>	<p>السَّنْبَسُ: نماز جو آخری وقت میں ادا کی جائے۔</p>
<p>أَذْبَقَهُ: چپکانا۔</p>	<p>السَّنْبَسُ: ہر چیز کا ٹکڑا۔ کلہاڑی کا سوراخ۔ ج ذَبَلُ وَذَبَلُ۔</p>	<p>السَّنْبَسُ: نماز جو آخری وقت میں ادا کی جائے۔</p>
<p>تَذَبَّقْتُ: الطَّيْرُ: لاسہ سے شکار ہو جانا..... الشئُ: لیس دار ہونا۔</p>	<p>السَّنْبَسُ: ہر چیز کا ٹکڑا۔ کلہاڑی کا سوراخ۔ ج ذَبَلُ وَذَبَلُ۔</p>	<p>السَّنْبَسُ: نماز جو آخری وقت میں ادا کی جائے۔</p>
<p>السَّنْبَسُ: ایک درخت چھوٹے قد کا جس کا پھول جگہ بزرگ کے پرندوں کو شکار کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔</p>	<p>السَّنْبَسُ: ہر چیز کا ٹکڑا۔ کلہاڑی کا سوراخ۔ ج ذَبَلُ وَذَبَلُ۔</p>	<p>السَّنْبَسُ: نماز جو آخری وقت میں ادا کی جائے۔</p>
<p>السَّنْبَسُ: ایک درخت چھوٹے قد کا جس کا پھول جگہ بزرگ کے پرندوں کو شکار کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔</p>	<p>السَّنْبَسُ: ہر چیز کا ٹکڑا۔ کلہاڑی کا سوراخ۔ ج ذَبَلُ وَذَبَلُ۔</p>	<p>السَّنْبَسُ: نماز جو آخری وقت میں ادا کی جائے۔</p>
<p>السَّنْبَسُ: ایک درخت چھوٹے قد کا جس کا پھول جگہ بزرگ کے پرندوں کو شکار کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔</p>	<p>السَّنْبَسُ: ہر چیز کا ٹکڑا۔ کلہاڑی کا سوراخ۔ ج ذَبَلُ وَذَبَلُ۔</p>	<p>السَّنْبَسُ: نماز جو آخری وقت میں ادا کی جائے۔</p>

دَفْتُ (ض) دَفْتُ السَّمَاءِ: ہلکی بارش ہوتا۔	(.....) دَجَا البسور: لٹکانا۔	الذَّيْفُورُ: تاریکی۔ خاکستری رنگ کی سیاہی مائل مٹی۔ ج دیا جیر و دیا جیر۔
الدُّثُّ والدَّفَّةُ والدِّثَاتُ: ہلکی بارش۔	دَجَّجَهُ: ہتھیار بند کرنا۔ دَجَّجَتِ السَّمَاءُ: آبر آلود ہونا۔	دَجَّجَلَ (ن) دَجَّجَلَ: جھوٹ بولنا
الدَّفَّةُ: معمولی زکام۔	تَدَجَّجَ: ہتھیار بند ہونا اور کہا جاتا ہے	(.....) و دَجَّجَلَ البعير: اونٹ پر قطران ملنا
الدَّفُوثُ: ہتھ جانے والا۔	"تَدَجَّجَ فِي شَكْحِيَّةٍ": وہ پوری طرح ہتھیار بند ہو گیا۔ بالمسكان: ٹھہرنا۔ مقیم ہونا۔ (دَجَّجَلَ)
دَفْرٌ (ن) دَفْرٌ: الرسمُ: منٹے لگنا۔ صفت (ذائِر) ج ذَوَائِرُ..... السِّيفُ: زنگ آلود ہونا..... الشَّجَرُ: پتے لگنا..... القُوبُ: میلا ہونا..... السَّرْجُلُ: بڑھاپے کے آثار نمایاں ہونا۔	الدَّاحُجُ: قَا۔ (مثل لفظ الحَاجُّ: کے مفرد و جمع ہے) خادم اور بوجھ اٹھانے والوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ وہ آہستہ چلتے ہیں۔ ج ذَاوِحُونَ و ذَاوِحَةٌ۔	الشيءُ: ڈھانپنا..... الانساءُ: سونے کے پائی سے ملع کرنا..... الارضُ: گوبر ڈالنا۔
دَفْرَةٌ: ہلاک کرنا۔ چادر سے ڈھانپنا۔	الدَّجَجُ: تخت تاریکی۔	الدَّجَّالُ: گوبر۔
..... الطَّائِرُ: گھونسلہ بنانا۔	الدجاج. (بتثليث الدال والفتح اعلى)	الدَّجَّالُ: بڑا جھوٹا۔ نام ایک شخص کا جو آخر زمانہ میں ظاہر ہوگا۔ ج دَجَّجَالُونَ
تَدَفَّرَ وَاذْفَرُ: بالقبوب: اوڑھنا۔ صفت (مُتَدَفِّرٌ) و (مُتَذَفِّرٌ): اس کی اصل مُتَدَفِّرٌ ہے تا کو وال میں ادغام کر دیا گیا ہے۔	مرغی۔ مرغ (پالتو جنگلی) الذجاج الهندی: ایک بڑا پرندہ ہے جس کو ملک شام میں دجاج حبش اور مصر میں دجاج رومی کہتے ہیں۔	و دَجَّجَالَةٌ. الدَّجَّالُ: سونے کا پائی۔
وَتَدَفَّرُ فَرَسُهُ: کود کر سوار ہونا۔	واحد (ذجاجة) ج ذجاج. الذجاجة: دھاگے کی اتنی۔ عیال۔	الدَّجَّالَةُ: ساتھیوں کا بڑا گروہ جو زمین پر چھا جائے گا۔
انذَرُ: ثنا۔ ناپید ہونا۔	الدَّجَّجُ: تخت تاریکی۔ سیاہ پہاڑ۔	الدَّجَّجِلُ و الدَّجَّجَالَةُ: قطران (دیکھئے لفظ القطنان)
إذْفَرُ: بہت مال جمع کرنا۔	الدَّجَّجِيُّ و الدَّيْفُوجُ: تاریک رات۔ ج دَيَا جِيحُ.	دَجَّجَلَةٌ: عراق کا مشہور دریا۔ لفظ کے لحاظ سے مؤنث ہے اور شہر کی تاویل سے مذکر اور کبھی اس پر الف لام بھی داخل ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے "الدججلة".
تذافرُ. الرَّمَمُ: منٹے لگنا۔	الدَّجَّجِيُّ و الدَّيْفُوجُ: تاریک رات۔ ج دَيَا جِيحُ.	دَجَّجَمَ (ن) دَجَّجَمَا: اللیلُ: تاریک ہونا۔
الذائرُ: قَا۔ ہلاک ہونے والا۔	السَّجَّاجِيُّ: مرغیوں کا بیچنے والا۔ اَسْوَدُ دجاجی: تخت سیاہ۔	دَجَّجَمَ (س) و دَجَّجَمَا: غمگین ہونا۔
الذئورُ: میل کچیل اور کہا جاتا ہے "غسکرُ ذئورُ: بہت فوج۔	السَّدَجَّجُ و السَّدَجَّجُ: پوری طرح سے ہتھیار بند "دَجَّجَتِ السَّمَاءُ": سے ماخوذ ہے اور تشبیہاً سیمی پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے۔	الدَّجَّجَمُ مِنَ الشَّيْءِ: غم۔
الذئارُ: بدن سے ملے ہوئے کپڑے کے اوپر کا گرم کپڑا۔ سونے والا۔ جس کپڑے کو اوڑھ کر لیئے۔	دَجَّجَجَ و تَدَجَّجَجَ: تاریک ہونا۔	الدَّجَّجَمُ: عشق کی بے تائیاں۔ کہا جاتا ہے "أَحَذَنَهُ دَجَّجَمُ العشق": اس کو عشق کی بے تائیوں نے گھیر لیا۔
الدئور و الدئارِئُ: کامل۔ ست۔ گنام۔	دَجَّجَجَ و تَدَجَّجَجَ اللیلُ: تاریک ہونا۔	الدَّجَّجَمَةُ: کلمہ۔ کہا جاتا ہے "فاسمعتُ لَهْ عَدِيْبِيْ (ذَيْجَم) لہریں مارنے والا تالاب۔
بہت سونے والا۔	ذجر (س) ذَجْرًا: حیران ہونا۔ مدہوش ہونا۔ صفت (ذجر و ذَجْرَان) ج ذَجْرِي و ذَجْرِي.	دَجَّجَنَ (ن) دَجَّجَنًا و دَجَّجُونًا: اللیومُ: ہادلو بارش والا ہونا..... اللیلُ: سیاہ ہونا۔ صفت (أذجن): مؤنث (ذجناء) ج ذَجْن.
الاذئورُ: غافل۔	ذاجر مذاجرة: بھاگنا۔	دَجَّجَنَ (ن) دَجَّجُونًا: بالصكان: اقامت کرنا۔
الماءُ: گرانا۔	الذجوران: تھوٹی۔ وہ لکڑی جو تیل چڑھانے کے لئے لگائی جائے۔ واحد (ذجوانة)	الخَمَامُ و غَيْرُهُ: پالتو ہونا۔ صفت (ذاجن): مؤنث (ذاجن و ذاجنة) ج ذَوَاجِنُ کہا جاتا ہے "ذَجَّنُوا لِي لَوْ مَهْمُ": کمینہ بین ان کی کھٹی میں پڑ گیا۔
الطائرُ: درخت میں گھونسلہ بنانا۔ بھد کرنا۔	الذجر: ایک وہ چیز جس میں سوراخ دار لوہا لگا ہوا ہوتا ہے اور اس میں سے بونے کے وقت تلہ گراتے ہیں۔	أذجن. القومُ: بارش میں داخل ہونا۔
دَجَّ (ض) دَجَّجْنَا و دَجَّجَانَا: القومُ: آہستہ چلنا..... الییسُ: چھت پگھلنا۔	الدَّجْرُ: بتثليث الدال والكسر افصح. السَّمَاءُ: لگا تار برستا..... المنظرُ

او الحُمى: ہمیشہ رہنا..... اللیل: تاریک ہونا۔

ذاجنہ مذاجنہ: نمائشی رواداری برتنا۔
اذجوجن: بیوم: بارش والا ہونا۔

الذجن: بمس۔ بہت بارش۔ گھاٹوپ بادل
بذجن و دجان و ذجون و اذجان: کہا
جاتا ہے "بیوم ذجن و بیوم ذجن": بہت
بارش کا دن۔ علیٰ هذا القیاس۔ لیلۃ ذجن
ولیلۃ ذجن۔

الذجنۃ: تاریکی۔ بذجن و ذجنات۔
والذجنۃ فی الوان الابل: بدترین سیاحی۔

الذجنۃ والذجنۃ والذجنۃ: تاریکی۔ بہت
بارش والا گھاٹوپ بادل۔ بذجنات: کہا
جاتا ہے "بیوم ذجنۃ و بیوم ذجنۃ": بہت
بارش کا دن و علیٰ هذا القیاس "لیلۃ
ذجنۃ و لیلۃ ذجنۃ": تاریک رات۔
الاذجن: تاریک۔

لیلۃ (مذجان): تاریک رات۔
الذاجنۃ والمذجنۃ: من السحاب: بہت
بارش والا بادل۔

ذجا (ن) ذجوا و ذجوا: اللیل: تاریک
ہونا۔ صفت (ذاج): مؤنث ذاجیۃ۔
الثوب: کشادہ ہونا۔

ذاجی مذاجاۃ: نمائشی رواداری برتنا۔
اذجسی اذجاۃ و تذجی تذجیا و اذجوجی
اذجیجنا۔ اللیل: تاریک ہونا۔ اذجی
البت: پردہ لگانا۔

الذجنۃ: تیس کا بن۔ تین انگلیاں مع القمہ
کے۔ بذجات و ذجی۔
الذجنۃ: تاریکی یا بادل کی تاریکی۔ شکاری
کے گھات کی جگہ۔ بذجی۔

الذاجی: فنا۔ من الغیش: آسودگی نعمت
ذاجیۃ: کامل نعمت۔

لیل (ذجی): تاریک رات۔
الذیاجی: تاریکیاں۔

ذح (ن) ذح: الشی فی الارض: چھپانا
الطعام بطنہ: شکم میری سے لٹک آتا۔

الذجل: گدی پڑ کر رکھ لینا..... البیت
فی الفری: کشادہ کرنا۔

انذح اندخاخا: بطنہ: کشادہ ہونا۔
الذخدح والذخدخۃ والذخداح
والذخداحۃ والذخداح والذخیدحۃ:

پستہ۔
ذخرہ (ف) ذخرا و ذخورا و مذخرۃ:
دھکارنا۔ دور کرنا۔ دغ کرنا۔ صفت فاعلی
(ذاجر و ذخور) صفت مفعولی (مذخور)

ذخرجہ: لڑکانا۔
تذخرج: لڑھکانا۔

الذخرۃ: کبیر یا کی گولی جس کو لڑھکا کر
لے جاتا ہے۔ بذخاریج۔

الذخر: سخت و مضبوط۔
الذخبرینجۃ: گندم کے درمیان باریک
وان۔

ذحس (ف) ذحسا: بین القوم: فساد
ذالنا..... الشی: بھرتا..... برجلہ: کریدنا
..... العزاز: کھال اتارنے کے لئے کھال
میں ہاتھ داخل کرنا۔ الثوب فی الوعاء:
کپڑے کو برتن میں داخل کرنا..... بالشر:
خفیہ طریقہ سے شراغیزی کرنا۔

(..... واذحس) السنبل: دانوں سے
بھرا ہونا۔

ذحس (س) ذحسا: اضیغہ: انگلی کا
سو جنا۔ صفت (مذخوس) اور انگلی کو
مذخوسۃ کہتے ہیں۔

الذحاس: من البیوت: آدمیوں سے بھرا
ہوا گھر۔

الذحاس والذحاس: ایک زرورنگ کا کپڑا
جو زمین کے اندر رہتا ہے۔ بذحاسات
وذحاجیس۔

الذحاس والذخوس: انگلی کے کنارے پر
ورم۔

الذیحس: ہر چیز کی کثیر مقدر۔
ذحص (ف) ذحصا: المذبح: ہر جگہ
ایڑیاں رگڑنا..... الرجل: جلدی کرنا۔

ذحص (ف) ذحصا و ذحوصا:
الصحجۃ: باطل کرنا۔ ذحصت الصحجۃ:
باطل ہونا..... الشمس: ڈھلنا۔

ذحص (ف) ذحصا: مذبح کی طرح
پاؤں پکنا..... رجلہ: پھسلنا..... السطر:
التلاع: پھسلنے کی جگہ بنا دینا..... عن الامر:
تفقیٹ کرنا۔

اذحص: الرجل: پھسلنا..... الصحجۃ:
باطل کرنا۔

انذحص: البزھان: باطل ہونا۔
الذحص والذحص: من الامکنۃ: پھسلنے
کی جگہ۔ بذحاض۔

المذحصۃ: پھسلانے والی جگہ۔
ذحقہ (ف) ذحقا و اذحقہ: دور کرنا۔
دھکارنا۔

انذحق: اپنی جگہ سے نکل پڑنا۔
الذاحق: فا۔ بے وقوف۔ غصناک۔
الذحقی: دور۔ دور ہونے کی جگہ۔
ذحیق القوم: قوم کا دھکارنا ہونا۔

مذحق: الظن: کشام۔ بیت والا۔
ذحل (ف) ذحلا: بھاگ کر چھپنا۔ دور
ہونا..... البسر: کونوں کے ایک جانب میں
کھودنا۔

(..... واذحل) فی الذحل: کھوہ میں داخل
ہونا۔

ذحل (س) ذحلا: ڈھیلے پیت والا ہونا۔
صفت (ذحل)

ذاحلۃ مذاحلۃ: دھوکا دینا۔ فریب کرنا۔
الذحل والذحل: کھوہ۔ گڑھا جو اوپر سے
تنگ اور نیچے سے کشادہ ہو۔ بذحسال
واذحال و اذحل و ذحول و ذحلان۔
الذحلۃ: کونوں۔

الذحل: فریبی دغا باز۔ مونا پست قدم۔ ڈھیلے
پیت والا۔

الذجال: اتناغ۔
البسر (الذحول والذحلاء): اوپر سے تنگ
نیچے سے چوڑا کتوں۔

دَخَلَةُ الرَّجُلِي وَدَخَلَتُهُ وَدَخَلْتُهُ: نیت۔
مذہب۔ راز۔ کہا جاتا ہے "هُوَ عَفِيفٌ
السَّخَلَةُ": وہ پاک نیت ہے۔ السَّخَلَةُ:
راز۔ اسی سے ہے "فَرَشْتُهُ دَخَلَةُ أُمْرِي":
میں نے اس کے سامنے اپنا راز ظاہر کر
دیا۔ السَّخَلَةُ: مختلف رنگوں کو ملا کر ایک رنگ
بنانا۔

السَّخَلُ: بڑے ذیل اور گھٹھے بدن والا۔
درخت کے جڑ کی گھاس۔ ایک چھوٹا پرندہ۔
رَج دَخَاخِيل (دَخَل السَّرْجُل وَدَخِيلَاهُ
وَدَخِيلَاهُ): نیت۔ راز۔

دَخَالُ الْأَذْن: زیادہ پاؤں چھوٹے پاؤں
والا سیاہ رنگ والا جانور جو کہ آرام کے وقت
گھونگے کی شکل میں لپٹ کر بیٹھتا ہے۔

السَّخَلُ: دو تیز حرکتوں کا واقع ہونا ایک
وقت اور ایک مقام میں جس کی وجہ سے دو
شعلے ہوتے ہیں نتیجہ اندھیرا ہوتا ہے۔

الدَّخِيل: فا۔ اندر آنے والا۔ اندرونی۔
الدَّخِيلَةُ: مؤنث۔ دَاخِلَةُ الْأَرْض: زمین کا
نقشبندی حصہ۔ الإزار: (تہ بند) کی
اندرونی سطح۔ الإنسان: نیت۔ مذہب۔

راز۔ رَج دَوَاخِل۔
السَّخَالُ: گھوڑے کا ایال۔ جوڑوں کا آپس
میں داخل ہونا۔

السَّخِيلُ: غیر قوم میں داخل ہونے والا۔ رَج
دَخَلَا: سخی کلمہ جو عربی زبان میں داخل ہو
گیا ہو۔ کہا جاتا ہے "ذَاءةٌ دَخِيلٌ": اندرونی
بیماری "هُوَ دَخِيلٌ فَلَانٌ": وہ فلاں کے ہر
کام میں راز دار ہے۔ وَدَخِيلُ الرَّجُلِ:
نیت۔ مذہب۔ راز۔

الدَّخِيلَةُ: مِن الشَّيْءِ: چیز کا اندرونی حصہ۔
دَخِيلَةُ الْمَرْءِ: نیت۔ اندرونی خیال۔

السَّخَلُ: داخل ہونا۔ داخل ہونے کی جگہ۔
کہا جاتا ہے "هُوَ حَسَنُ الْمَدَخَلِ فِي
أُمُورِهِ": وہ اپنے امور کا بہتر منتظم ہے۔
السَّخَلُ: جمع۔ لیم۔ کینہ۔ غیر قوم میں
داخل ہونے والا۔

الدَّخَسُ: ذرا ناچکھ۔ موٹا گھٹھے بدن والا۔
الدَّخَسُ: رہا۔ رکے کھر کا ور۔

الدَّخَسُ: أَيْ بَجْرِي جَانُورٌ كَانَا مِمَّا يَسُوكُ
سُوسٌ كَيْتَةٌ بِر۔

عَدَّةٌ (دَخَسَ): بہت دُزَع دَخَسَ: قریب
قریب حلقہ زوالی زورہ۔

السَّخِيْبُ: آہل میں الجھی ہوئی گھاس۔
بہت تعداد۔ ہا جاتا ہے "هُوَ دَخِيْسٌ
اللَّخْمِ": وہ دُزَع کُوشْت ہے۔

كَلَا (دَخِيْسٌ): بہت اور الجھی ہوئی گھاس۔
السَّوَاخِيْسُ وَالْمَدَّخَسُ: دیگ دان کے

پائے۔
دَخُوْمًا اِبْعَارِيَّةً: بانٹھا نہ کرنا۔

دَخَلُ (ن) دَخُولًا وَمَدَّخَلًا: اندر
آنا۔ داخل ہونا۔ بہ: اندر لانا۔ داخل کرنا

..... عَلَيْهِ: زیارت کرنا۔ ملاقات کرنا۔
دَخِلَ: فِي عَقْلِهِ وَاجْتِدَادِهِ وَ(دَخِلَ (س)
دَخَلًا: عقل یا جسم میں خرابی لاحق ہونا۔

صفت (مَدَّخُولٌ) عَلَيْهِ: امرٌ فَلَانٌ:
باطنی طور پر فاسد ہونا۔ (دَخَلَهُ) داخل کرنا۔

دَاخِلَةٌ مَدَّاخِلَةٌ: العُجْبُ: خود پسندی آنا۔
دَاخِلَةٌ فِي أُمُورِهِ: در اندازی کرنا۔ دُخَلُ

دِينَا۔
أَدَخَلَهُ إِدْخَالًا وَمَدَّخَلًا: داخل کرنا۔

فَدَخَلُ: داخل ہونا۔ الشَّيْءُ: آہستہ آہستہ
داخل ہونا۔

تَدَاخَلَهُ: گھل مل جانا۔ الشَّيْءُ: ایک
دوسرے میں داخل ہونا۔ تَدَاخَلَتِ الْأُمُورُ:
مشترکہ متخمس ہونا۔

إِدْخَلُ وَإِنْدَخَلُ: داخل ہونا۔
السَّخَلُ: مَص۔ آمدنی۔ مرض۔ عیب۔

تہمت۔
دَخَلُ الرَّجُلِ: نیت۔ مذہب۔ راز۔

الدَّخَلُ: عقل یا جسمانی خرابی۔ مکر۔ خاندانی
عیب۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو کسی کی جانب
منسوب کرتے ہوں اور فی الحقیقت ان میں

سے نہ ہوں۔

السَّخَالُ: دَخَسًا: الشَّيْءُ فِي الرِّمَادِ:
چھپا دینا۔ دَخَسَ فِيهِ: داخل ہونا۔
دَخَسَ (س) دَخَسًا: السَّخَالُ: ورم والا
ہونا۔ صفت (دَخَسَ)

السَّخَالُ: وہ لکڑی جو بہن کے شکار کرنے
کے لئے لکڑی کی جائے۔ رَج دَوَاخِيْلُ اور
اس طریقہ سے شکار کرنے والے کو
(الدَّخَال) کہتے ہیں۔
دَخَلَطُ: اول قول بکنا۔

دَخَمَهُ (ف) دَخَمًا: زور سے دھکا دینا۔
دَخَمَسَ اللَّيْلُ: رات کا تاریک ہونا۔

الدَّخَمَسُ وَالْمَدَّخَمَسُ: سیاہ۔ بہت سخت
تاریک۔ کہا جاتا ہے "لَيْلٌ دَخَمَسَ": بہت
تاریک رات۔ رَج دَخَايِسُ:

السَّخَايِسُ: بہت زیادہ گندم گوں موٹا
آدمی۔ بہادر۔

دَخَمَلُ: بہ: زمین پر لڑھکانا۔
دَخَانِدُخُو وَيَدْحِي دَخُوًا: البَطْنُ: بڑا ہونا

اور نیچے کو ٹلنا اور کہا جاتا ہے "دَفَا
يَذْمُو دَخُوًا: اللّٰهُ الْأَرْضُ: زمین کو بچھانا۔

تَحَا الْمَطَرِ الْخَصِي عَن وَجْهِ الْأَرْضِ"
بارش نکلنے کو بہا لے گی۔

إِدْخُوًا إِذْجُوًا: پھیلانا۔
دَخِي يَدْحِي دَخِيًا: الشَّيْءُ: پھیلانا۔

تَدَخِي تَدْحِيًا: الشَّيْءُ: پھیلانا۔
إِنْدَحِي: البَطْنُ: کشادہ ہونا۔

الدَّخِيَّةُ: بندریا۔
الدَّخِيَّةُ: فَوْجٌ كَأَسْرَارٍ: رَج دَخَاءُ:

الْأَدْحِيُّ وَالْإِدْحِيُّ وَالْأَدْحُوَّةُ وَالْأَدْحِيَّةُ:
ریت میں شتر مرغ کے انڈے دینے کی جگہ۔

الدَّخُ وَالْمَدَّخُ: دھواں۔
دَخَدَخُ: الرَّجُلُ: چھوٹے چھوٹے قدم رکھ

کر تیز چلنا۔ غَنَةُ الشَّيْءِ: روکنا۔
تَدَخَدَخُ: الرَّجُلُ: ولگیر ہونا۔

دَخَرُ (ف) وَدَخِرُ (س) دَخَرًا وَدَخُورًا:
ذلیل ہونا۔ حقیر ہونا۔

أَدْحَرَةٌ: ذلیل کرنا۔
دَخَسَ (ف) دَخَسًا: الشَّيْءُ فِي الرِّمَادِ:

چھپا دینا۔ دَخَسَ فِيهِ: داخل ہونا۔
دَخَسَ (س) دَخَسًا: السَّخَالُ: ورم والا

ہونا۔ صفت (دَخَسَ)

د. د. ت: (کیمیا) باریک پستی ہوئی دوائی جو کہ کیزے مار دوائی کے طور پر استعمال ہوئی ہے۔ اس کا نام ڈیکورڈینفل۔ ٹریکلورائیٹان۔ اس کا انکشاف ۱۹۳۳ء کو سویسری کالرلٹر نے کیا۔

المدخول: وہ شخص جس کی عقل میں فتور ہو۔ لاغر۔ عیب دار۔ نخلۃ مدخولة: درخت خرما جس کے اندر کا حصہ کھوکھلا ہو گیا ہو۔ زجمل (مفداجل): موٹا گھسے ہوئے بدن کا مرد۔

المدخلل والمدخلل: رازدار۔ دخلل الرجل: نیت۔ راز۔ امور میں مداخلت کرنے والا۔

المدخلل: چربی جو گوشت میں پیوست ہو۔ دخمۃ (ف): دخمۃ بنتی سے بنا تا۔ دخمۃ الجاریة: جماع کرنا۔ دخمۃ دخمۃ: دھوکا دینا۔

دجن (س): دخن الطعام واللحم وغیرہما: دھوئیں کی بو دینا۔ صفت (دجن)..... النار: دھواں اٹھنا..... خلقه: بد اخلاق ہونا..... ودخن (ک): دخنۃ: دھوئیں کے رنگ کا ہونا۔ صفت (ادخن): مونت دخنۃ۔

دخنۃ (نض): دخنۃ ودخنۃ ودخنۃ وادخنۃ وادخنۃ. النار: دھواں اٹھنا۔ ادخن الزرع: دانوں کا سخت ہونا۔

دخن الشی: دھوئی دینا۔ تدخن: دھوئیں کی بو دینا۔ المدخن: نکلی۔ چینا۔ باجرا۔

المدخن: بمس۔ دھواں۔ کین۔ فساد۔ عقلی فتور۔ دین کی کمزوری۔ حسب کا عیب۔ کہا جاتا ہے "لست أصلحہ علی دخن": میں اس سے مکر و فساد کی صورت میں صلح نہیں کروں گا۔

المدخنۃ: دھندلا۔ خوشبو جس سے مکانوں کو دھوئی دیتے ہیں۔ ابو دخنۃ: ایک قسم کا پرنہ۔

المدخن والمدخن: دھواں ج ادخنۃ ودخنۃ ودخنۃ: مولدین تمباکو کو سگریٹ کو کہتے ہیں۔ المدخنۃ: روشن دان جس سے دھواں نکلے ج دواجن۔

المدخنۃ: وہ چیز جس پر دھواں چھا جائے۔ مونت دخنۃ۔ المدخن: دھوئیں کی جگہ۔ المدخنۃ: عمود سوز۔ انکیشی۔ ج مداجن۔ المدخنۃ: دھواں نکلنے کی جہتی۔

المدخنۃ: تاریکی۔ لیلۃ (دخینۃ): تاریک رات۔ المدخن: کھیل کود۔ اس کا لام کلمہ مثل "غد" کے واؤ مخذوف ہے اور کبھی واؤ کو الف سے بدل کر (الذد) کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے "صاانا فی ذی ولا الذمینی" نہ تو میں کھیل کود میں ہوں اور نہ یہ میرا کام ہے۔ المدخن: وقت۔ کہا جاتا ہے "مضی ذی من الذھر": زمانہ کا ایک حصہ گزر گیا۔

المدخن: کھیل کود۔ الذدان: بے نفع آدمی۔ کندکوار۔ بہت کاٹنے والی تلوار (ضد) الذیدن والذیدن: عادت۔

الذیدن والذیدن: تمہاں۔ ہر اول۔ راہبر۔ جنگلی گدھا۔ الذیدن والذیدن: (فارسی لفظ) رقیب۔ جاسوس۔

الذیدن والذیدن: کھیل کود۔ ذر (نض): ذر۔ الحلیب: دودھ زیادہ ہونا..... الذینا علی أهلها: پیداوار زیادہ ہونا..... الناقۃ بلبیہا: بہت دودھ دینا۔ کہا جاتا ہے "ذرث خلوتہ": وہ خوش حال ہو گیا۔ النبات: گتہ جانا..... (ذرأ و ذورأ) العرق: بہنا..... السماء بالنظر: برسات..... السراج: روشن ہونا..... الشوق: بازار کا چل پڑنا۔

الذیدن والذیدن: کھیل کود۔ ذر (نض): ذر۔ الحلیب: دودھ زیادہ ہونا..... الذینا علی أهلها: پیداوار زیادہ ہونا..... الناقۃ بلبیہا: بہت دودھ دینا۔ کہا جاتا ہے "ذرث خلوتہ": وہ خوش حال ہو گیا۔ النبات: گتہ جانا..... (ذرأ و ذورأ) العرق: بہنا..... السماء بالنظر: برسات..... السراج: روشن ہونا..... الشوق: بازار کا چل پڑنا۔

الذیدن والذیدن: کھیل کود۔ ذر (نض): ذر۔ الحلیب: دودھ زیادہ ہونا..... الذینا علی أهلها: پیداوار زیادہ ہونا..... الناقۃ بلبیہا: بہت دودھ دینا۔ کہا جاتا ہے "ذرث خلوتہ": وہ خوش حال ہو گیا۔ النبات: گتہ جانا..... (ذرأ و ذورأ) العرق: بہنا..... السماء بالنظر: برسات..... السراج: روشن ہونا..... الشوق: بازار کا چل پڑنا۔

الذیدن والذیدن: کھیل کود۔ ذر (نض): ذر۔ الحلیب: دودھ زیادہ ہونا..... الذینا علی أهلها: پیداوار زیادہ ہونا..... الناقۃ بلبیہا: بہت دودھ دینا۔ کہا جاتا ہے "ذرث خلوتہ": وہ خوش حال ہو گیا۔ النبات: گتہ جانا..... (ذرأ و ذورأ) العرق: بہنا..... السماء بالنظر: برسات..... السراج: روشن ہونا..... الشوق: بازار کا چل پڑنا۔

الذیدن والذیدن: کھیل کود۔ ذر (نض): ذر۔ الحلیب: دودھ زیادہ ہونا..... الذینا علی أهلها: پیداوار زیادہ ہونا..... الناقۃ بلبیہا: بہت دودھ دینا۔ کہا جاتا ہے "ذرث خلوتہ": وہ خوش حال ہو گیا۔ النبات: گتہ جانا..... (ذرأ و ذورأ) العرق: بہنا..... السماء بالنظر: برسات..... السراج: روشن ہونا..... الشوق: بازار کا چل پڑنا۔

الذیدن والذیدن: کھیل کود۔ ذر (نض): ذر۔ الحلیب: دودھ زیادہ ہونا..... الذینا علی أهلها: پیداوار زیادہ ہونا..... الناقۃ بلبیہا: بہت دودھ دینا۔ کہا جاتا ہے "ذرث خلوتہ": وہ خوش حال ہو گیا۔ النبات: گتہ جانا..... (ذرأ و ذورأ) العرق: بہنا..... السماء بالنظر: برسات..... السراج: روشن ہونا..... الشوق: بازار کا چل پڑنا۔

الذیدن والذیدن: کھیل کود۔ ذر (نض): ذر۔ الحلیب: دودھ زیادہ ہونا..... الذینا علی أهلها: پیداوار زیادہ ہونا..... الناقۃ بلبیہا: بہت دودھ دینا۔ کہا جاتا ہے "ذرث خلوتہ": وہ خوش حال ہو گیا۔ النبات: گتہ جانا..... (ذرأ و ذورأ) العرق: بہنا..... السماء بالنظر: برسات..... السراج: روشن ہونا..... الشوق: بازار کا چل پڑنا۔

ذر (س نض): ذرأ. وجهه: بیماری کے بعد نکھر آتا۔

ذر (ض): ذریرا. الفرس: تیز دوڑنا۔ اذر: المغزول: مضبوط بننا..... الشی: حرکت دینا..... علیہ الصرب: لگا تار مارنا.....

الریح السحاب: تھمیرے مار کر برسنے کے قابل بنا دینا۔ کہا جاتا ہے "اذر اللہ لک اخلاف السرق": اللہ تعالیٰ تمہارے لئے رزق زیادہ کریں..... الناقۃ: بہت دودھ والی ہوتا۔

استدر اللبن: زیادہ۔ استدرۃ: بہانا..... الریح السحاب: تھمیرے مار کر برسنے کے قابل بنا دینا۔

الذو: بمس۔ دودھ۔ دودھ کی زیادتی۔ خون اور کہا جاتا ہے "للہ ذرہ": اس کی خوبی اللہ ہی کے لئے ہے۔ و"لا ذر ذرہ": خدا کرے کہ وہ خوش حال نہ ہو۔

الذو: بڑے موٹی۔ واحد (ذرة) ج ذرور ذرات. الذار: فا۔ دودھاری اونٹنی۔ ج ذرور و ذرور و ذرار۔

الذریۃ: دودھ۔ دودھ کی زیادتی۔ دودھ کا بہنا۔ خون۔ کوڑا۔ ج ذرور: کہا جاتا ہے "مصر علی ذریہ": وہ اپنے ارادہ پر ڈنار با کوئی چیز اس کے لئے مانع نہیں۔

ذرر: الطریق: راستہ کا درمیان۔ ذرر الریح: ہوا چلنے کی سمت۔ کہا جاتا ہے "ہمنا علی ذرر واحد": ان دونوں کا قصد ایک ہے۔ الذرارة تکله۔

الکوکب (الذری): بثلیث الدال: روشن ستارہ۔ فرس ذری: تیز رفتار گھوڑا۔ ذری السیف: تلوار کی چمک۔

الذرة: عام لوگوں کے نزدیک: بطوطا۔ الذرور: بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔ حرت ذرور: خونریز جنگ۔

الذریس: بمس۔ روشن چراغ۔ تیز رفتار جانور۔

الذریۃ: دودھ کی کثرت۔

الذریۃ: دودھ کی کثرت۔

المندزار: بہت پہلے والا۔ کہا جاتا ہے "سماء مندراز" موسلا دھار برسنے والا بادل۔ غین مندراز: بہت آنسو بہانے والی آنکھ۔

ذراء (لف) ذرا و ذرّاة: زور سے دھکا دینا.....

الشی: بچھانا..... السیل علیہ: تیزی کے ساتھ آنا۔ کہا جاتا ہے "ذرا السیل علینا: وہ ہمارے اوپر اچانک آ گیا۔ (..... ذرّوہ) البذر: چھانا..... النار: روشن ہونا۔

ذارہ مذاراة: ایک دوسرے کو دفع کرنا۔ نرمی برتنا۔ مہربانی کرنا۔ فریب دینا۔

تذرت تذرت: الصائد: فریب دینے کے لئے چھینا۔ وتذرتا علیہ: دراز دتی کرنا اذرتا. الصيد وللصيد: گھات لگانے کی جگہ بنانا۔

تذارت تذارت: القوم: بھگڑے میں بات کو ایک دوسرے پر ڈالنا۔

اندزأ السیل: تیزی کے ساتھ آنا۔ الطریق: پھیل جانا..... فلان علینا: اچانک آ جانا۔

الذراء: بمس۔ نیزے کی چھڑ وغیرہ کی کچی مخالفت۔ کہا جاتا ہے "قومئ ذرّنة": میں نے اس کی کچی کو درست کر دیا۔ و"جاء السیل ذرّنا" یعنی سیلاب تیزی سے اچانک طور پر آ گیا۔

الذری والذری: روشن ستارہ۔

الذرای: مہول الام بڑے ستارے۔

الذریسة: نشاۃ ٹھیک کرنے کا گول دائرہ۔ شکار کو دھوکہ دینے کے لئے گھات لگانے کی جگہ۔

التذرة والتذرا: ایسا شخص جو صاحب قوت و شوکت ہو اور دشمن کو ہٹانے والا ہو۔

المندزأ: بنانے کا ذریعہ۔

ذرب (س) ذرّسا و ذرّیة: ماہر کاریگر ہونا..... بالشی: عادی ہونا۔ شوقین ہونا صفت (ذرب و ذراب) مؤنث ذرّیة و ذارّیة..... ذرّہ بالشی و فیہ و علیہ: عادی بنانا۔

تذرب: عادی بننا۔ ذرب الجندی: شکست کے وقت مستقل رہنا۔

أذرب: بگل بجانا..... القوم: دشمن کے ملک میں داخل ہونا۔

الذرب: گلی کا کشادہ دروازہ۔ پھانک۔ راستہ۔ ذرّوب و ذراب۔

الذریة: بمس۔ لڑائی اور ہر کام میں جرأت و دلیری۔ کہا جاتا ہے "فی العفو ذریة": معاف کرنا بہت بڑا کام ہے۔

الذرّوب والذریبوت: من الجمال و التوق: سدھایا ہوا۔

الذریة: لڑائی اور ہر کام میں جرأت و دلیری۔

المذرب: منع۔ تجربہ کار۔ سرد گرم چشیدہ۔..... من الابل: سدھایا ہو گلیوں میں چلنے کا عادی اونٹ۔ المذرب۔

تذرتا. الشی: لڑھکانا۔

الذریاس: شیر۔ پاگل کتا۔

ذریص ذریصة: خوف سے خاموش رہنا۔

الذریسان والذریسان: دروازہ کا محافظ۔ ذرّابنة: فارسی کلمہ ہے۔

الذریزین والذریزین والذریزون: جنگلے یا کٹھڑے کا سلسلہ۔

ذرج (نض) ذرّوجا و ذرجانا. الشیخ او الصی: چلنا..... الرجل: بیڑھی پر چڑھنا..... القوم: ختم ہو جانا۔ مرجانا: کہتے ہیں "ہو اکذب من ذب و ذرج": وہ زندوں اور مردوں سے زیادہ جھوٹا ہے..... الرجل: بے اولاد مرنا۔ البناء: اوپر تلے منزلیں بنانا۔ (..... ذرجسا و ذرج و ذرج) الفوب او الکتاب: لپیٹنا۔ کہنا۔ و ذرج البناء: بیڑھی بنانا۔ ذرّجہ الی کذا: آہستہ آہستہ قریب کرنا۔ ذرّجہ الامر: تنگ دل کرنا۔

أذرج الشی فی الشی: داخل کرنا۔

ذرج (س) ذرّجسا: اپنے راستہ پر چلنا۔ مراتب میں ترقی کرنا۔ کلام یادین میں راہ راست پر قائم رہنا۔

تذرج: الی کذا: آہستہ آہستہ آگے بڑھنا۔

اندرج: القوم: ختم ہو جانا..... فی کذا: داخل ہونا۔

استذرجة: الی کذا: قریب کرنا۔ ایک درجہ سے دوسرے درجہ میں ترقی دینا۔ زمین پر چلانا قریب دینا۔

الذرج: بمس۔ وہ کاغذ جس پر لکھا جائے۔ کہا جاتا ہے "انفذتہ فی ذرج الکتاب": میں نے اس کو اپنے خط کے ساتھ بھیج دیا..... فی القیراة: روالی۔ کہا جاتا ہے "ہو وہم ذرج یدک": وہ تمہاری منھی میں ہے۔

الذرج: چھوٹا تھمیل یا کنڈیا جس میں عورتیں خوشبو اور اپنا سامان رکھتی ہیں۔ ذج أذراج و ذرجة۔

المنذرج: ہوائی اڈہ (ایئر پورٹ)

الذرج: وہ کاغذ جس پر لکھا جائے۔ راستہ۔ دو آدمیوں کے درمیان صلح کا سفیر۔ ذج أذراج و ذراج: کہا جاتا ہے "رجعت أذراجی": میں اسی راستہ لوٹ گیا جس سے آیا تھا۔ و"ذهب ذرّج أذأذراج الریاح": اس کا خون رائیگاں اور قصاص نہیں لیا گیا۔ و"خلبہ ذرج الضب": اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔

الذریجة: ذج ذرج: بیڑھی۔ ذرج السلم: بیڑھی کا پایہ..... ذج ذریجات: مرتبہ۔ بڑے یا چھوٹے دائرہ کے ۶۰ یا ۱۱۳ جزاء میں سے ایک جز۔

الذریجة البینیة: ۹۰ کے زاویہ کا ایک جز۔ جو کہ برابر ہے ۶۰ دقیقہ کے اور دقیقہ ۶۰ ثانیہ کا ہوتا ہے اور ثانیہ ۱۰ ثالث کا ہوتا ہے اور ثالث ۱۰ اربعہ کا ہوتا ہے۔

الذراج: فاسق۔ شراب ذارج: ہر جگہ پھیلنے والا غبار۔ کہا جاتا ہے "صبی ذارج": پاؤں پاؤں چلنے لگنے والا بچہ۔ قبیلۃ ذاریجة: تباہ و برباد ہونے والا قبیلہ۔

الذاریجة: جانور کی ٹانگ۔ ذج ذوارج۔

الدَّرُوجُ: جن الرياح تیز چلنے والی ہوں۔
الدَّرُوجُ: بڑے بڑے دشوار عاجز کرنے
والے امور۔ کہا جاتا ہے "وَقَعَ فِى الدَّرُوجِ": وہ بہت دشوار معاملہ میں پھنس گیا۔
الدَّرُوجُ: بہت پھرنے والا۔ چنچل خور۔
تیکی۔

الدَّرَاجَةُ: سائیکل۔

الدَّرَاجَةُ: محاصرہ کرنے کا ایک آلہ۔ بمعنی
دَبَابَةٌ (دیکھئے الذَّبَابَةُ)

الدَّرَاجُ: تیز۔ مؤنث مذکر دونوں پر اطلاق
ہوتا ہے۔ دَرَجٌ اَرْبَعٌ واحد دَرَجَةٌ: اس میں
"تا" وحدت کی ہے تانیث کی نہیں۔ نر کو
"حَيْقُطَانٌ": بھی کہتے ہیں۔

الدَّرَجُ: راستہ۔ مسلک اور اسی سے ہے
"اِمْسُ فِي مَدْرَجِ الْحَقِّ": حق کے راستہ پر
چلو۔ مَدْرَجُ النَّمْلِ: چیونٹیوں کے چلنے کی
جگہ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ اَخْفَى مِنْ مَدْرَجِ
النَّمْلِ": وہ چیونٹیوں کے راستہ سے زیادہ
پوشیدہ ہے۔

الدَّرَجُ: پہلی ہوئی کتاب یا خطبہ مَدَارِجِ
الدَّرَجِ وَالْمُدْرَجَةُ: لکھی ہوئی کتاب یا
خط۔ مَدَارِجُ.

الدَّرَجُ: گھیل کا سنبڑیم، وعظ و تقریر کے
لئے ہال۔ تصویر کشی کا کمرہ۔ (ذَارِكُ رُومِ)
السِّمَا: سینما گھر۔

الدَّرَجَةُ: مَدَارِجُ: افضل یا اعلیٰ تک
پہنچنے کا ذریعہ۔ کہا جاتا ہے "هَذَا اَلْاَمْرُ
مَدْرَجَةٌ لِهَذَا": یہ اس امر کے لئے ذریعہ
ہے۔ راستہ۔ راستہ کا بڑا حصہ۔ کاغذ جس
میں کوئی تحریر لکھی جائے یا لکھنی جائے۔
مَدَارِجُ الْاَلْحَمَةِ: نیلہ کے درمیان کے
راستے۔ اَرْضٌ مَدْرَجَةٌ: بہت تیز والی
زمین۔

دَرَجَةٌ (ف) دَرَجًا: دفع کرنا۔ ہٹانا۔

دَرَجُ (س) دَرَجًا: بوزھا ہونا صفت مذکر و
مؤنث (فَرَج)

الدَّرَجِيَّةُ: یہ مادہ اور روح سے ماخوذ ہے

دو عقیدوں کے امتزاج کی طرف اشارہ
ہے۔ یعنی خالق اور خلق کے نظریہ کی طرف
اور یہ بھی تصور کہ مادی اثرات انسانی کردار
پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔

الدَّرَجِيَّةُ: پست قدم۔

دَرَجٌ (س) دَرَجًا: غمگیناں ہونا۔ صفت
(فَرَج): بے دانتوں کا ہونا۔ صفت (اَفْرَد):
مؤنث دَرَجًا: دَرَجٌ دَرَجًا: دَرَجٌ دَرَجًا:

اَفْرَدًا: دانتوں کا گرنا۔

الدَّرَجِيُّ: تلچھٹ۔

الدَّرَجُ: پستانوں والے جانور جن کے دانت
نہیں ہوتے ان کی انگلیاں طاقتور ناخنوں
والی ہوتی ہیں جن کے ذریعے زمین میں
گڑھا نکال سکتے ہیں ان میں سے بعض کو ام
قرفہ اور اَبْجَلُ النَّمْلِ بولتے ہیں۔

دَرَجَبُ: الرَّجُلُ: خوفزدہ آدمی کی مانند پیچھے
دیکھتے ہوئے بھاگنا۔

اِمْرَأَةٌ (فَرَجَبٌ): رات میں آمد و رفت
رکنے والی عورت۔

الدَّرَجِيَّةُ: مصیبت۔ بڑھا۔ بہت بڑھیا۔
محبت کا منتر۔

دَرَجَرُ: الشَّيْخُ اَوْ الصَّبِيُّ البُسْرَةُ: منہ میں
چھلکانا۔

الدَّرَجَارُ: دُحُولُ: آواز۔ ایک بڑا درخت
جس کے پھول زرد اور پتے خاردار ہوتے
ہیں۔

الدَّرَجَرُ: بچے کے دانت نکلنے کی جگہ۔ مَدَارِجُ
الدَّرَجَرُ: بھنور۔

دَرَجٌ (س) دَرَجًا: دنیا کی نعمتوں اور لذتوں
پر قادر ہونا۔

دَرَجٌ (ن) دَرَجًا: الثَّوْبُ: کپڑا ہاں ایک سینا
..... الحَيَاطُ الدَّرُوجِيُّ: درزی کا سیون کو
باریک سینا۔

الدَّرَجُ: مَص: دنیا کی نعمتیں اور لذتیں۔ دو
کپڑوں کے درمیان کا سیون۔ مَدَارِجُ الدَّرُوجُ:

بَنَاتُ الدَّرُوجُ: جوں اور اس کے انڈے۔

الدَّرَجِيُّ: سلامتی کا پیشہ کرنے والا۔ مَدَارِجُ الدَّرَجَةُ
اور دَرُوجٌ بھی کہتے ہیں۔ واحد دَرَجِيُّ اور
عوام ضمہ وال سے دَرَجِيُّ کہتے ہیں۔

(أَوْلَادٌ دَرَجَةٌ): جولاہے۔ دَرَجِيُّ: نیچے درجہ
کے لوگ۔ اُمُّ دَرَجَةٍ: دنیا کی کنیت۔

دَرَسٌ (ن) دَرَسًا: الرَّسْمُ مَنَّا: صفت
(فَارَس) مَدَارِجُ: الشَّيْءُ: نشان
مَنَّا۔ (..... دَرَسًا) الرَّسْمُ: نقش مَنَّا.....

الثَّوْبُ: کپڑا بوسیدہ ہونا..... الثَّوْبُ: بوسیدہ
کرنا..... السَّاقَةُ: سدھانا..... دَرَسًا

وَدَرَسَةٌ: لِكِتَابٍ أَوْ الْعِلْمِ: پڑھنا۔ متوجہ ہو
کے یاد کرنا۔ دَرَسُ السَّجَارِيَةِ: جماع کرنا۔

(..... دَرَسًا) وِدْرَسَةٌ: السَّحْنَةُ: گہروں کا
گاہنا۔ (دَرَسَتِ المَرْأَةُ دَرَسًا وَدَرَسًا):
حاضہ ہونا۔

دَرَسَةٌ وَدَرَسَةٌ: الكِتَابُ: پڑھنا۔ دَرَسٌ
البَعِيرُ: سدھانا۔

دَارَسَهُ مُدَارَسَةً وَدَرَسًا: یا ہم پڑھنا.....
الدُّنُوبُ: ارتکاب کرنا۔

تَدَارَسَ: الطَّلِبَةُ الكِتَابَ: یا ہم پڑھنا اور کہا
جاتا ہے "تَدَارَسَ الكِتَابَ وَادَارَسَهُ": اس
نے کتاب پڑھی۔

اِنْدَرَسَ: الرَّسْمُ: مَنَّا..... العَبِيرُ: ناپید ہونا۔
الدَّرَسُ: مَص: سبق۔ محشی راستہ۔ مَدَارِجُ
دَرُوسُ.

الدَّرَسُ وَالذَّرَسُ وَالذَّرِيْسُ: پڑانا کپڑا
اَوْنَتُ: دم۔ مَدَارِجُ: دَرَسًا وَدَرَسًا: مَدَارِجُ
کنیت فرخ۔ اَبُو اَفْرِنَسُ: کنیت ذکر۔

الدَّرَسَةُ: ریاضت۔ ورزش۔
الدَّرَسُ: حاضہ عورت۔

الدَّرَسُ: بہت پڑھنے والا۔

الدَّرَسَةُ: طلبہ کے تعلیم حاصل کرنے کی جگہ
اور کہا جاتا ہے "هَذِهِ مَدْرَسَةُ النِّعَمِ": یہ
چوپائے کا راستہ ہے۔

الدَّرَسُ: پڑھنے کی کتاب۔ پڑھنے کی جگہ۔
الدَّرَسُ: توراہ پڑھنے کی جگہ۔

الدَّرَسُ: مَص: پڑھنا کپڑا۔ طَرَسْتُ

الدَّرَسُ: مَص: پڑھنا کپڑا۔ طَرَسْتُ

<p>الذرق: مص - سخت خواہ کوئی چیز ہو۔ الذرقاء: بادل۔ الذرق: چیزے کی بنی ہوئی ڈھال جس میں نگرہی اور پٹھانہ ہو۔ ذرق: ایک قسم کا میوہ۔ واحد ذرقہ: شراب۔ (الذرق والذرق والذرق: تریاق۔ الذرق: زرد آلو۔ شتالو۔ الذرق: بغیر ٹوٹی کے دو دستوں والا لوتا۔ ذرق: ذواق (معرب) الذرق: عابدزادہ لوگوں کی ایک قسم کی ٹوپی اور اسی کی نسبت سے پہننے والے "الذرقیون" کہلاتے ہیں۔ ذرق: الرجل: تیز گزرنے والا۔ ناچنا۔ تاز سے چلنا۔ الذرق: ایک قسم کا ریشمی کپڑا۔ الذرق: بیکار۔ ذوال کا نام۔ ذرق: المطر: بے در پے برسنا۔ ذرق: الشی: اپنے وقت پر پہنچنا۔ الذرق: چھل کا پکنا۔ الولد: لڑکے کا بالغ ہونا۔ الشی: لائق ہونا۔ السمسالة: سیکھنا۔ بشارہ: خون کا بدلہ لینا۔ الشی: بصرہ: دیکھنا۔ ذرق: مدارک: مدارک و ذرائع: لائق ہونا۔ الذرق: الشی: ایک کو دوسرے کے پیچھے کرنا۔ الذرق: الطعن: پیارے تیز ہارنا۔ ذرق: القوم: آخر کا اول سے آگے آنا اور اس میں اذراک: بولا جاتا ہے۔ الخطأ بالصواب: غلطی کی اصلاح کرنا۔ غلطی کے بعد درست کرنا۔ مسافات: تلافی کرنا۔ درست کرنا۔ کہا جاتا ہے "تذارت حمة اللہ پر رحمہ": یعنی اللہ کی رحمت اس کو لائق ہو۔ و"تذارت القوم": اس نے قوم کی تلافی کی۔ اذرق: لائق ہونا۔ استذرك: الشی بالشی: کسی چیز سے کسی چیز کو حاصل کرنے کا ارادہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "استذرك النجاة بالفقران": اس نے</p>	<p>سے لکنا۔ الذرق: رہ۔ مؤنث ہے کبھی مذکر بھی استعمال کرتے ہیں۔ ذرق: ذرق و ذراع: تصغیر ذرق۔ ذرق المرأة: عورت کی قمیص یا وہ قمیص جس کو وہ گھر میں پہنتی ہے۔ (مذکر) ذرق: ذراع اور ذوق اس چھوٹے سے کپڑے کو بھی کہتے ہیں جس کو چھوٹی لڑکی گھر میں پہنتی ہے۔ الذرق: من العشب: تازہ گھاس۔ الذرق والذرق: قمری سینے کی سولہویں سترہویں اٹھارہویں راتیں۔ اس لئے کہ ان میں راتوں کی ابتداء میں تاریکی اور بقیہ میں چاندنی رہتی ہے۔ الذرق: فاء۔ زرہ پہننے والا۔ الذرق: درخت خرما کی چھال کی مانند۔ ایک چیز جس کو درخت خرما کے ارد گرد لگا دیا جاتا ہے۔ ذرق: ذرق: الذرق: مؤنث اذرق من اللیالی: وہ رات جس میں صبح کے وقت چاند لگتا ہے۔ ذرق: الذرق: زرہ کو چھونے والا نیزہ۔ ذرق: ذراعی: المذراع: ذراع و المذراع: ذراع: جب۔ کوٹ۔ والی المذراع: عند اليهود: احبار یہود کے پہننے کا کتان کا ایک کپڑا۔ ذراع (مذرع و مذرع): پانی جس کے قریب قریب کی چراگاہ چر لی گئی ہو۔ روضة: مزرعة: باغ جس کے ارد گرد کوکھالیا گیا ہو۔ المذرع: مفتح۔ ایک قسم کا جانور۔ المذراع: فولاد سے ڈھکا ہوا جنگی جہاز۔ الذرق: پناہ۔ سایہ۔ جانب۔ الذرق: عند العاقبة: دروازہ کا پت۔ فصیح لفظ (الصفق) ہے۔ ذرق و اذرق: فی سیرہ: تیز چلنا۔ ذرق (ن) ذرقا: فی المسحی: تیز چلنا۔ ذرق: نرم کرنا۔</p>	<p>مذروس: چلتا ہوا راستہ۔ قرأش مذروس: بچھا ہوا کچھونا۔ بجنون پاگل۔ الذریاس والذریاس: شیر۔ الذریاس: بڑے سر کا کتا۔ دلیر مرد۔ ذرضت (س) ذرضاً: الناقة: بڑھاپے کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے دانت والی ہوتا۔ صفت (ذرضاء) الذرض والذرض: چوہا، بلی، خرگوش، سہا، وغیرہ کا بچہ۔ ذرض و ذرضة و ذرضان و ذروض و اذرض۔ الذرض والذروض: تیز رفتار اونٹنی۔ ام اذراض: جنگلی چوہا۔ بلا۔ مصیبت۔ کہا جاتا ہے "وقعوا فی ام اذراض": وہ لوگ بلاکت میں پڑ گئے۔ ابو اذراض: بے وقوف۔ ذرع (س) ذرعاً: الفرس و غیرہ: سیاہ سر اور سفید جسم والا ہوتا۔ صفت (أذرع): مؤنث ذرعاء ذرع۔ ذرع (ف) ذرعاً: الشاة: بکری کے سر کی جانب سے کھال اٹارنا۔ السرقبة أو الیئذ: گردن یا ہاتھ کا جوڑا کھاڑنا۔ ذرع: الزرع: کھیت کا کچھ حصہ کھایا جاتا ہے۔ البساء: پانی کے قریب کی سب چیز کھائی جاتا۔ ذرع: زرہ پہننا۔ المرأة: قمیص پہننا۔ ہ: گلا گھونٹنا۔ الشی: ظاہر کرنا۔ الرجل: چلنے میں آگے بڑھنا۔ أذرع: الشهر: آدھے سے زیادہ گزرتا (و تـذرع و اذرع): زرہ پہننا۔ اذرع و اذرع اللیل: رات کی تاریکی میں داخل ہونا۔ اذرع: کسی چیز میں کسی چیز کو داخل کرنا۔ اذرع الماء: پانی کے قریب کی سب چیز کھائی جاتا۔ انذرع: فی السیر: آگے بڑھنا۔ انذرع یفعل کذا: وہ ایسا کرنے لگا۔ العظم: بڑی کا گوشت سے جدا ہونا۔ الطین: پیٹ۔ ہجرنا: القمر من السحاب: چاند کا بادل</p>
---	---	---

ویدزان۔ أَذْرَنَ: القوب: میلا کرنا..... القوب: میلا ہونا۔ أَذْرَنْتِ السَّائِبَةَ: پرانی خشک گھاس چرنا۔ الذرن: میل کچیل۔ ج اذران۔ أم ذرن: دنیا۔ الذران: لومڑی۔ الذرنین: پرانی خشک گھاس جس کو جانور کھائیں۔ پرانا کپڑا۔ أم ذرنین: قط زدہ زمین۔ الذرنوک والذرنیک: غالیچہ۔ قالین۔ ج ذرنیک۔ ذرة (ف) ذرها: عَلَيْهِم: ناگاہ آنا..... لهم وَعَنْهُمْ: مدافعت کرنا۔ ذره علی کذا: زیادہ کرنا۔ ذرهات: الدهر: زمانے کے حوادث۔ الذرة: دفع۔ مدافعت۔ کہا جاتا ہے "هُوَ ذُو ذِرَّةٍ": وہ دشمنوں پر اچانک ٹوٹ پڑنے والا ہے۔ الذرة: سردار۔ قوم کا نمائندہ۔ لیڈر۔ ج مقدارہ۔ ذرهت: السخاوی: درہم کی مانند گول پتیوں والی ہوتا۔ إذرهت: بڑی عمر والا ہونا۔ بڑھاپے کی وجہ سے دانتوں کا گرنا صفت (مذرهت) البصر: نگاہ کا دم ہونا۔ الذرهت والذرهت: الیدرہام: چاندی کا سکہ۔ ج ذرہم: (یونانی کلمہ ہے) مولدین کے نزدیک درہم کا اطلاق مطلقاً نقد پر ہوتا ہے۔ المذرهت: بہت درہم والا۔ الذرهت: راہب۔ عابد۔ زاہد۔ لفظ فارسی ہے جس کے معنی فقیر کے ہیں۔ ذرن (ض) ذرنسا وذرینسا وذرینة وذرینة وذرینانا وذرینانا وذرینا وذرینا۔ الشی وبالشی: حیلہ سے جاننا۔ (آخری مصدر زیادہ مستعمل ہے۔)	وَأَذْرَمَ..... الساق: ہموار ہونا۔ الأسنان: گرنا۔ گرنے کے قریب ہونا۔ البعير: بے دانتوں والا ہونا۔ ذرم (ض) ذرما وذرمانا وذرمانة۔ السنذ والذرنب ونحوهما: چھوٹے چھوٹے قدموں سے جلدی چلنا اور ایسا ہی "ذرم الشیخ والشی": بھی بولا جاتا ہے۔ ذرم: أظفازہ: ناخن کاٹنے کے بعد ہموار کرنا۔ أذرم: الضی: دودھ کے دانت پلنا۔ صفت (أذرم): مؤنث ذرماء۔ الذرماء: خرگوش۔ سرخ پتیوں والی ایک گھاس۔ ذرم مذرمة: گرائی کے ساتھ ساتھ جلدی چلنا۔ الذرمة: درم کا مؤنث۔ خرگوش۔ ذرع ذرمة: چمکدار یا نرم زرہ۔ الذرم والذرمة: سببی۔ خرگوش۔ الذرم: پست قدم۔ بدرقار۔ مؤنث ذرمة۔ الذرم: بڑگوشت۔ نازک اندام خوبصورت لڑکا۔ الذرماء: سرخ پتیوں والی انگوری۔ الذرماسا: (لاطینی) ڈرامہ: یعنی کسی قصہ یا کہانی کو شخصیات کے روپ میں نقل کرتے ہوئے ذکر کرنا۔ ذرع (مذرمة): چمک دار نرم زرہ۔ الذرم: میل کچیل میں تھرا ہوا۔ ج مذاریم۔ ذرمسن: خاموش رہنا..... الشی: چھپانا۔ ذرمص ذرمصة: خاکساری کرنا۔ فروغی کرنا۔ الذرمق والذرمک: سفید آنا۔ میدہ۔ ذرمک: دوڑنا..... البناء: ہموار و چمکدار بنانا۔ الذرمک: نرم مٹی۔ الذرموک: غالیچہ۔ ذرن ذرننا۔ القوب: میلا ہونا۔ صفت (ذرن ویدزان): مؤنث ذرنة	بھاگ کر نجات حاصل کرنے کا ارادہ کیا مافات: تلافی کرنا..... السخطا بالضواب: غلطی کی اصلاح کرنا..... علیه القول: غلطی نکالنا۔ الذرك والذرك: لاحق ہونا۔ حصول حاجت۔ کسی چیز کی انتہائی گہرائی۔ کہا جاتا ہے "بلغ الفواض ذرك البحر" غوط خور سمندر کی انتہائی گہرائی میں پہنچ گیا اور کہا جاتا ہے "فرس ذرك الطريق" بھگائے ہوئے جانور کو پالنے والا گھوڑا۔ تاوان اور اسی سے ہے "مالجفك من ذرك فقلتي خلاصه": جو تاوان تمہارے اوپر ہوگا اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے۔ الذركة: درجہ۔ لیکن درکہ اور درجہ میں فرق ہے۔ درکہ اترنے کی حالت میں اور درجہ چڑھنے کی حالت میں۔ ج ذرکات کہا جاتا ہے۔ "الجنة ذرکات والنار ذرکات" وجبال الذرك: امن عامہ کو کنٹرول کرنے والی فورس۔ الافراک: مص۔ قوت مدرکہ۔ ذراک: اسم فعل بمعنی اذرك۔ الذراک: متصل۔ کہا جاتا ہے "سیر ذراک": متصل سیر۔ الذراک: مرغوب چیز کو پالنے والا۔ الذریکة: بھگائی ہوئی۔ الاسیذراک: مص۔ کلام سابق سے جو وہم پیدا ہوا اس کو دور کرنا۔ رجل مذریکة: تیز ادراک کرنے والا۔ تاہم مبالغہ کے لئے ہے۔ مذارک: الشرع: وہ نصوص جن سے ثبوت احکام ہو۔ المذارک والمذارک: حواس۔ الذریکة: اختلاط۔ بھیر۔ انبوہ۔ الذریکة: ایک قسم کا باجہ (مولدہ) ذرم (س) ذرمنا۔ العضو: گوشت سے بڑی کا پوشیدہ ہونا۔ صفت (ذرم و ذرم و ذرم
---	--	--

<p>اؤٹ۔ المذسح: حلق کی تالی۔ ذسقی (س) ذسفا. الحوض: نہر۔ لبالب ہونا۔ آذسق. الاناء: بھرتا۔ الذسقیق: بھرا ہوا حوض۔ چاندی کا خوانچہ۔ صاف چاندی کا زیور۔ لبلا راستہ۔ بڈھا مرد۔ خوبصورتی۔ نور۔ سفیدی۔ سراب کی سفیدی اور اس کی چمک۔ الذسوک: شیر۔ الذسکرة: بڑا گاؤں۔ گرجا..... ہموار زمین۔ ایسا مکان جس میں شراب اور کھیل کود کی چیزیں ہوں۔ محل کی مانند عمارت۔ محل کے ارد گرد مکانات ہوں اور ان میں شاطر لوگ جمع ہوتے ہوں۔ ج ذساکو۔ ذسم (نض) ذسما. القاروزة: ڈاٹ لگانا..... الباب: بند کرنا..... الجرح: زخم میں جی رکھنا..... المظرو الأرض: کچھ کچھ تر کرنا..... البعير: قطران وغیرہ ملنا (دیکھتے قطران)..... الاثر: منا..... المرأة: جماع کرنا۔ ذسیم (س) ذسما و ذسومة: چربی والا ہونا۔ صفت (ذسیم و اذسم) مؤنث (ذسیمة و ذسماء) ج ذسم و ذسم و ذسیم و قدسّم الشئ: میلا ہونا۔ میلا ہونا۔ و قدسّم الرجل: چکناہٹ کی چیز کھانا۔ ذسم. الشئ: چربی ڈالنا۔ کالا کرنا..... المظرو الأرض: تر کرنا۔ اذسم. القاروزة: ڈاٹ لگانا..... الذسم: کنارہ۔ کسی چیز کی انتہا۔ کہا جاتا ہے "آنا علی ذسم الامر"۔ میں کام کے خاتمہ پر ہوں۔ الذسم: گوشت یا چربی کی چکناہٹ۔ چربی کا میل۔ الذسمة: خاکستری (..... والذسام): ڈاٹ۔ کاگ۔ کہا جاتا ہے "فما هو الاذسمة"۔ یعنی اس میں نفع نہیں۔</p>	<p>ہیں۔ "الذسٹ لبی" یعنی میں غالب رہا۔ و "الذسٹ علی" میں مغلوب ہو گیا اور عوام دست کا کلمہ دیک کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ الذسجة: دست۔ مٹھا۔ شیشہ کا بڑا برتن۔ ج ذسایج۔ الذسور: مجموعہ قوانین۔ اجازت۔ وزیر۔ وہ کتاب جس میں آئین و قوانین ضبط کئے جائیں۔ وہ رجسٹر جس میں فوجیوں کے نام اور ان کے وظائف لکھے جائیں۔ ج ذسائیر۔ الذسنان. فی اصطلاح أصحاب الموسیقی: برباط کا تار۔ ج ذسائین۔ ذسرة (ن) ذسرا: نیزہ مارنا۔ ہٹانا۔ دفع کرنا۔ الذسفة: رسی سے کشتی کے تختوں کو جوڑنا۔ الذسار فی الشئ: زور سے گھسانا..... الشئ: میخ لگانا..... الجارية: جماع کرنا۔ الذسار: کھجور کے ریشہ کی مانند ایک چیز جس سے کشتی کے تختوں کو جوڑتے ہیں۔ میخ ج ذسرو و ذسور۔ الذسراء: کشتی۔ ج ذسور۔ الذسور: گیبوں میں ایک تلخ قسم کا دانہ۔ شیر۔ مونا اؤٹ۔ و ذسور: نعمان بن منذر شاہ عراق کی ایک فوج کا نام۔ الذسور و الذسورئی و البذو اسیرئی و الذسورائی: مونا۔ مضبوط۔ ذسع (ف) ذسعا: منہ بھر کے قے کرنا..... بقیہ: قے کرنا..... الاناء: بھرتا العزق: رگ کا گوشت میں چھپنا..... الرجل: بہت دینا..... الشئ: ہٹانا دفع کرنا..... البعیر جوتہ: جگالی کرنا۔ الذسبة: بہت بخشش طبیعت۔ بڑا ایالہ۔ وسیع دسترخوان۔ قوت۔ ج ذسایج۔ بعیر (ذیسع): بہت جگالی کرنے والا</p>	<p>ذزی (ض) ذزنا و تذزی و اذزنی۔ الضیة: دھوکا دینا۔ ذزی الزاس: میذزی سے سر کو کھلانا (دیکھتے میذزی) ذازی مذاذاة..... ہ: باہم نرمی کرنا۔ فریب دینا۔ اذزی. الرجل بکذا: جلتانا۔ آگاد کرنا۔ کہا جاتا ہے "فما اذراک وما یذریک" یعنی تم نہیں جانتے۔ الذزی و المذرة و المذریة: سبکدوشی۔ باریک سینگ جس سے عورتیں بالوں کو درست کرتی ہیں۔ ج مدار و مدارزی۔ ذزرة (ن) ذزرا: ہٹانا۔ دفع کرنا۔ ذس (س) ذسا و ذسسی. الشئ تحت التراب و فیہ: دھنسانا۔ چھپانا۔ گاڑنا۔ ذس علیہ: حیلہ و مکر کرنا۔ سازش کرنا۔ ذسس تذسبسا: دھنسانا۔ چھپانا۔ تشدید مبالغہ کے لئے ہے اور بجائے ذسس کے ذسی کہا جاتا ہے جیسے بجائے تظنن کے نظنی۔ تذسس. بہ الی اغذانیہ: حیلہ و مکر کرنا۔ سازش کرنا۔ اذس: دھنسانا۔ دفن ہونا۔ الذسبسة: خفیہ سازش و عداوت۔ الذساس و الذساسة: سرخ رنگ کا زہریلا سانپ جو مٹی میں چھپا رہتا ہے۔ الذساسة: سانپ کی چھتری اور امثال سے ہے "العزق ذساس"۔ یعنی باپ کی عادتیں بیٹوں تک پہنچتی ہیں۔ الذسوس: چاسوس۔ الذسیس: وہ شخص جس کو خبر لانے کے لئے بھیجا جائے۔ وہ چیز جو مٹی میں دبا دی جائے۔ گرم راکھ میں بھنی ہوئی چیز۔ ج ذسس: الذسس: ریا کار لوگ۔ الذس: زخم کی گہرائی تاپنے کا آلہ۔ الذسنت: حیلہ و فریب۔ مکان کا صدر حصہ۔ مجلس۔ تکیہ۔ کاغذ۔ لباس۔ بیابان۔ ج (ذسوت) اور شطرنج کے کھیلنے میں بولتے</p>
---	--	---

الدَّيْسَمُ: رینچھ یا اس کا بچہ۔ لومڑی یا اس کا بچہ۔ گھاس۔ تارکیا۔ سیاہی۔ کام کا ساتھی۔ مہربان۔
 الـدَّيْسَمَةُ: ذرہ۔
 دَسَايْدَسُو دَسُوَا و دَسِي يَدَسِي دَسِيَا: کم ہونا..... الرجُلُ پوشیدہ ہونا۔
 دَسِي. الرَّجُلُ: بگاڑنا۔ گمراہ کرنا..... نَفْسُهُ: گناہ کرنا۔
 دَسَّ (ن) دَسًّا: دشیشہ: (ایک قسم کا کھانا) تیار کرنا..... الحَبُّ غلہ کو پکھلانا۔
 الدَّشِيشُ: گیہوں کی مانند ایک غلہ جس کو مونا مونا پیرا جاتا ہے۔
 الدَّشِيشَةُ: ایک قسم کا کھانا جس کا جزاء اعظم کوٹا ہوا گیہوں ہے۔
 الدَّوْشِقُ: بڑا مکان۔ مونا اونٹ۔
 الدَّوْشِكُ: بچھوٹا۔
 دَشَنُ (ن) دَشْنًا: الشَّيْءُ: دینا۔
 دَشَنُ: القَوْبُ: پہلی مرتبہ پہننا۔
 المَعْبَدُ: برکت دینے کے لئے سب سے پہلی مرتبہ نماز پڑھنا۔
 تَدَشَنُ: الشَّيْءُ: لینا۔
 الدَّاشِنُ: فَـ الدَّاشِنُ مِنَ الْغِيَابِ: نیا کپڑا جو ابھی استعمال نہ کیا گیا ہو..... مِنَ الدَّوْرِ: نیا مکان جس میں ابھی کسی نے سکونت نہ کی ہو۔
 دَضًا (ن) دَضُوًا: لڑائی میں گھس پڑنا۔
 دَضَّةٌ: دھنکارنا۔
 دَعَعَةٌ (ن) دَعَعًا: بختی سے دھنکارنا۔ دھکے دینا۔
 اَدَعُ الرَّجُلُ: چھوٹے چھوٹے بال بچے والا ہونا۔
 اللداعع: چھوٹے چھوٹے بال بچے۔
 اللداعع: بھجور کے متفرق درخت۔ ایک جنگلی درخت کے دانے۔ پروں والی سیاہ چھوٹی نیاں۔ واحد دَعَاعَةٌ۔
 دَعَبَةٌ (ف) دَعَبًا و دَعَابَةٌ: دفع کرنا۔ مزاح کرنا۔ خوش طبعی کرنا۔ (..... دَعَبًا)

السَّمْرَةُ: جماع کرنا۔
 دَاعِيَةٌ دَاعِيَةٌ: کھیل کود کرنا۔ خوش طبعی کرنا۔ ہنسی مذاق کرنا۔
 تَدَاعَبَ: القَوْمُ: ہا ہم ہنسی مذاق کرنا۔
 تَدَعَّبَ: عَلَيْهِ: تاز کرنا۔
 الدَّعِيبُ و الدَّعَائِبُ: کھیل کود ہنسی مذاق کرنے والا۔
 الدَّعَابُ و الدَّعَابَةُ: بہت ہنسی مذاق کرنے والا۔ دَعَابَةٌ: میں 'تا' مبالغہ کی ہے تا میث کی نہیں۔
 الدَّعَابَةُ: ہنسی مذاق۔ سیاہ چھوٹی۔ بے وقوفی۔
 الاَدْعَبُ: بے وقوف۔ مَوْنُثُ دَعْبَاءُ: ج دُعْبُ: مہینہ کی اٹھائیسویں رات۔
 الدَّعْبُ: بہت کھیلنے والا۔ اچھا گانے والا۔ تازک بدن نوجوان۔
 الدَّعْبُوبُ: سیاہ چھوٹی۔ ایک قسم کا سیاہ دانہ جو کھایا جاتا ہے۔ راستہ جس پر آمدورفت زیادہ ہو۔ پست قدم مرد جس سے ٹھٹھا کیا جائے۔ شادمان۔ منٹ۔ بے وقوف۔ لبا گھوڑا۔ لَيْلَةُ دَعْبُوبٍ: بری رات یا بہت کالی رات۔
 الدَّعْبُوثُ و الدَّعْبُوسُ: بے وقوف۔ کم عقل۔
 الدَّعْبَلُ: مینڈک کے اٹلے (..... و الدَّعْبَلَةُ): مضبوط اونٹنی۔
 دَعَعْتُ (ف) دَعَعًا: بختی سے ہٹانا۔ دھکے دینا۔
 دَعَعْتُ (ف) دَعَعًا: پاؤں یا ہاتھ وغیرہ سے مٹی باریک کرنا۔ دَعَعْتُ بِهِ الْأَرْضُ: پکک دینا۔
 دَعَعْتُ: روونگٹے کھڑے ہونا۔ سستی لاحق ہونا۔
 اَدَعَعْتُ: فِي الشَّرِّ: برائی میں مبالغہ کرنا۔
 الشَّيْءُ: باقی رکھنا۔ چوری کرنا۔
 اِنْدَعَعْتُ: الشَّيْءُ: روندنا جانا۔
 تَدَعَعْتُ: صُدُّوْهُمْ: کینہ رکھنا۔

الدَّعْثُ: مہس۔ مرض کی ابتداء۔
 السَّدْعُ: کینہ۔ پانی کا بقیہ۔ ج اذغسات و دغاث۔
 دَعَسَرُ الحَوْضُ: ڈھانا..... الْأَرْضُ: روندنا۔
 الدَّعْثَرُ: بے وقوف۔
 السَّدْعُورُ: مِنَ الحَوْضِ: حوض جس کے چاروں طرف شکتہ ہو گیا ہو۔ گڑھا..... مِنَ النِّعَمِ: بہت چوپائے۔
 دَعِجْتُ (س) دَعِجًا: العَيْنُ: آنکھ کا بہت سیاہ اور بڑی ہونا۔
 اَدْعَجُ: بڑی اور بہت سیاہ آنکھوں والا۔ مَوْنُثُ دَعِجَاءُ: ج دُعِجُ: الدَّعِجَاءُ: قمری مہینہ کی اٹھائیسویں رات۔
 الدَّعِجَةُ: آنکھ کی سیاہی۔ مع وسعت کے۔
 لَيْلُ اَدْعِجٍ: تاریک رات۔
 المَدْعُوجُ: مجنون۔ پاگل۔
 دَعِرَ (س) دَعِرًا: العَوْدُ: دھواں دینا اور نہ سلگنا۔ بوسیدہ ہونا۔ صفت (دَعِسر)..... الزَّنْدُ: آگ نہ دینا۔ صفت (اَدْعِر)۔
 دَعَسَرُ (ف) و دَعَسَرًا: دَعَسَرًا: الرَّجُلُ: بدکار ہونا۔
 تَدَعَسَرُ: وَجْهُهُ: چہرہ کا بری طرح سے داغ دار ہونا..... الرَّجُلُ: شریر ہونا۔ خبیث ہونا۔
 الدَّعْرُ و الدَّعْرَةُ و الدَّعَارَةُ و الدَّعَارَةُ: برائی۔ فساد۔
 الدَّعَارَةُ و الدَّعَارَةُ: بد خلقی۔
 الدَّاعِرُ: فَـ شَرِيْرٌ: خبیث۔ مَوْنُثُ دَاعِسرَةَ: الدَّائِرَةُ: درخت خرما جو گامنا نہ دیا جاسکے۔ ج مَدَاعِسرُ۔
 الدَّعْسَرُ: کڑی کھانے والا کبیرا۔ واحد (دَعْسَرَةٌ) رَجُلٌ (دَعْسَرٌ و دَعْسَرَةٌ): ساتھیوں کے ساتھ خیانت کرنے والا۔
 دَعَسَرُ (ف) دَعَسَرًا: ہٹانا۔ دفع کرنا.....
 البجاریة: جماع کرنا۔
 دَعَسَسَ (ف) دَعَسَسًا: الشَّيْءُ: روندنا۔
 الوِعَاءُ: بھرتا..... فَلَانًا: دفع کرنا۔

فَسَمِ (أَدْعَمُ وَ دُعْمَى): سینہ میں سفیدی والا گھوڑا۔
 المُدْعَم: جائے پناہ۔
 دُعْمَص: الماء: بہت سیاہ کپڑوں والا ہونا۔
 المَدْعُمُوص: پانی کا سیاہ کیزا جو تالابوں میں پانی کم ہو جانے پر ظاہر ہوتے ہیں اور عوام اس کو (البُلْعُط): کہتے ہیں۔ ج دُعَامِص وَ دُعَامِص۔
 دَعْن (ف) دُعَانَةُ: شوخ و بیباک ہونا۔
 الدَعْنُ: شوخ و بیباک۔ ج دَعْنَةُ۔
 دُعَا (ن) دُعَاءٌ وَ دُعْوَى: ہ: پکارنا۔
 رَغْبَتُ كَرْنَا: مدد طلب کرنا۔ ہ: السی الامر: کسی کام کی طرف لے جانا۔ ہ: حاضر ہونے کو کہنا۔ دُعَاءُ فَلَانَا وَ بِلَانَا: نام رکھنا۔
 السَّمِيَّت: بین کرنا۔ ہ: دُعُوْفَةٌ وَ مَدْعَاءَةٌ: دعوت کھانے کے لئے بلانا (دُعَاءٌ لَه: دعا کرنا۔ عَلَيَه: بددعا کرنا۔ إِلَيْه: کسی چیز کی طرف بلانا۔
 دُعَاءُ مُدَاعَاةً: جھگڑا کرنا۔ باہم پہیلی کہنا۔
 المَحَابِطُ: گرائنا۔
 أَدْعَاءُ إِدْعَاءً: غیر باپ کی طرف منسوب کرنا۔
 تَدَعَّتْ تَدْعِيًا: النَّايِحَةُ: نوحہ کرنے میں آواز کو بلند کرنا۔
 تَدَاعَى: العَدُوُّ: متوجہ ہونا۔ القَوْمُ: ایک دوسرے کو بلانا۔ تَدَاعَى الشَّىءُ: دعویٰ کرنا۔
 تَدَاعَبَ الحَيَّطَانُ: شکست و ویران ہونا۔
 القَوْمُ عَلَيَه: دشمنی میں متفق ہونا۔
 اِنْدَعَى اِنْدِعَاءً: لِدُعُوْتِه: جواب دینا۔
 اِدْعَى: الشَّىءُ: حتم یا باطل کا دعویٰ کرنا۔
 ہ: اپنی طرف نسبت کرنا۔ عَلَيَه: مقدمہ کرنا۔
 اِلَى غَيْرِ اٰبِيه: باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف منسوب کرنا۔ الشَّىءُ: تمنا کرنا۔ اِدْعَى فِى الحَرْبِ: حریف کے سامنے اپنا نام و نسب پیش کرنا۔

سخت دست کہہ کر تکلیف پہنچائی۔
 دَعَبْ (س) دَعْبًا: بے وقوف ہونا۔
 صفت (ذاعبک و ذاعبکة) مَوْنَت (ذاعبکة): کہا جاتا ہے "فَلَانٌ اَحْمَقُ ذاعبکة": فلاں بے وقوف ہے۔
 ذاعبکة مُدَاعِبَةٌ: سخت جھگڑا کرنا۔ نال منول کرنا۔
 تَدَاعَبَ: القَوْمُ: باہم سخت جھگڑنا۔
 تَدَاعَاكَوْا فِى الحَرْبِ: لڑائی میں باہم زور آزمائی کرنا۔
 الدَعْبُ: سخت جھگڑا ہوا۔
 المَدْعَبُ: گنہگار۔ کمزور۔ ایک قسم کا پرندہ۔
 المَدْعَبَةُ: راستہ کا بڑا حصہ۔
 المَدْعَبُ وَ المَدْعَبُ: سخت دشمن۔
 دَعْلَةٌ (ض) دَعْلًا: دھوکا دینا۔
 دَاعِلُهُ: باہم فریب دینا۔
 المَدَاعِلُ: فَا۔ بھانسنے والا۔
 دَعْلَجٌ دَعْلَجَةٌ: اللَّيْلُ: تاریک ہونا۔
 الشَّىءُ: کسی چیز کے رنگوں کا مخلوط ہونا۔
 الرَّجُلُ: بار بار آنا جانا۔ الشَّىءُ: لڑھکانا۔
 المَدْعَلَجُ: بھری ہوئی گردن۔ باہم لپٹی ہوئی نباتات۔ خوبصورت نازک بدن جوان۔
 تاریکی۔ بھینڑیا۔ گدھا۔ اوتھی جو ہانکنے سے نہ چلے۔ آنے جانے والے کا نشان قدم۔
 دَعَمَ (ف) دَعْمًا: الشَّىءُ: سہارا دینا۔
 نَجَبٌ لَكَ: ہ: مدد دینا۔ قوی کرنا۔
 اِدْعَمَ: نیک لینا۔
 تَدَاعَمَ: الامرُ فُلَانًا: ہجوم ہونا۔
 المَدْعَمَةُ ج دُعْمٌ وَ (المَدْعَمُ) ج دُعْمٌ وَ (المَدْعَمَةُ ج دُعَائِمُ): ستون۔ کھمبا۔ لکڑی کا ستون جو چھپرے کے لئے کھڑا کیا جائے۔
 المَدْعَمَانِ وَ المَدْعَمَاتَانِ: چرخی کے دونوں طرف کے ڈنڈے دُعَامَةُ القَوْمِ: رئیس قوم۔
 المَدْعَمِيُّ: بڑھئی۔ کوئی چیز جس میں مضبوط سہارا لگا ہوا ہو۔ راستہ کا بڑا حصہ۔

(..... وَ دَعْسَهُ) بِالرُّمُحِ: نیزہ مارنا۔
 المَرْأَةُ: ذلیل و سوا کرتا۔
 دَاعَسَهُ مُدَاعَسَةً: باہم نیزہ بازی کرنا۔
 المَدْعَسُ: مَص۔ نِشَان۔ طَرِيْقٌ دُعْسٌ: بہت نشانوں والا راستہ۔
 المَدْعَسُ: اُمید کی جگہ۔
 المَدْعَسُ وَ المَدْعَسُ: بہت آدورفت کا راستہ۔ نیزہ۔ ج مَدَاعِيسُ وَ مَدَاعِيسُ: المَدْعَسُ: نیزہ مارنے والا۔
 دَعَصَهُ (ف) دَعَصًا وَ اَدْعَصَهُ: قتل کرنا۔
 دَعَصَهُ بِالرُّمُحِ: نیزہ مارنا۔
 دَاعَصَهُ: عزت میں مقابلہ کرنا۔
 تَدَعَصَ: اللُّخْمُ: گل سڑ کر ریزہ ریزہ ہونا۔
 المَدْعِصُ: ج دِعْصَةٌ وَ اَدْعِصَاصُ وَ (المَدْعِصَةُ ج دِعْصُ): ریت کا تودہ۔
 المَدَاعِصُ: نیزے۔
 المَدْعِصَاءُ: نرم زمین جہاں ہنسبت دوسری جگہوں کے گرمی زیادہ ہو۔
 دَعِقَ (ف) دَعْقًا: الطَّرِيْقُ: بہت روندنا۔
 صفت مَضْعُوْلٍ (دَعِقٌ وَ دَعِيقٌ وَ مَدْعُوْقٌ) الغَازَةُ: چاروں طرف لوٹ ڈالنا۔ الماءُ: جاری کرنا۔ الرَّجُلُ: فوراً مار ڈالنا۔
 وَ اَدْعِقَ: الخَيْلُ: ایز لگانا۔ عَلَيَهُمْ: الخَيْلُ: کسی قوم پر لوٹ ڈالنے کے لئے گھوڑوں کو لے آنا۔
 دَعِيقَ (س) دَعْقًا: الطَّرِيْقُ: بہت آدورفت والا ہونا۔
 المَدْعِيقَةُ: مملو و چنچ۔
 المَدْعِيقَةُ: اُوْتُوں کا گلہ۔ بارش کی بوچھاڑ۔
 المَدْعِيقُ: پانی بہنے کی جگہ۔
 دَعْوِيْقَةُ الطُّيُوْنِ: ایک چھوٹی چڑیا کا نام۔
 حَيْلٌ (مَدَاعِيقُ): لڑائی میں لوگوں کو کھینچنے والے گھوڑے۔
 دَعْبُ (ف) دَعْبًا: الثَّوْبُ: ملائم بنانا۔
 الخَصْمُ: نرم کرنا۔ الجِلْدُ: مانا۔
 الشَّىءُ فِى الثَّرَابِ: ہٹی میں لوٹانا۔ کہا جاتا ہے "دَعْبَكَ بِالْقَوْلِ": اس نے اس کو

اِسْتَدْعَاهُ اِسْتَدْعَاءً: پکارنا..... الشئ: طلب کرتا۔
 الدَّعَاءُ: دعا کا مصدر۔ ج اذعية۔
 الدَّعْوَةُ: پکار۔ قسم اور کہا جاتا ہے "هُوَ مَنِي" دَعْوَةُ الرَّجُلِ "یعنی وہ مجھ سے قریب ہے اور یہ مانند (هُوَ مَنِي زَمِيَّةُ السَّهْمِ وَمَزَجِرُ الْكَلْبِ) کے ہے کہ اس کا مطلب بھی یہی ہے۔ "وَالَهُمُ الدَّعْوَةُ عَلٰی غَيْرِهِمْ": دعا میں ان سے ابتداء ہے۔ وَكُنَّا فِي دَعْوَةِ فَلَانٍ: ہم فلاں کی مہمانی میں تھے۔
 (..... وَالِدَعَاوَةِ الدِّعَاوَةُ) اِدْعَاءُ کے اسم ہیں۔
 الدَّعْوَى: دعویٰ۔ معص۔ مقدمہ۔ دعویٰ ج الدَّعَاوَى. والدَّعَاوَى.
 الدَّعَاءُ: بہت دعا کرنے والا۔
 الدَّعَاءَةُ: انگشت شہادت۔
 الاذعية والادعوة: جیتاں پیلن۔
 الدعي: لے پا لک۔ وہ شخص جس کے نسب میں شبہ ہو۔ غیر باپ یا غیر قوم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والا۔ ج اذعیاء۔
 الداعي: فا۔ لوگوں کو اپنے دین و مذہب کی طرف بلانے والا۔ ج دُعَاةُ مَوْتِدَاعِيَّةِ ج دَاعِيَاتٍ وَدَوَاعٍ (..... وَالِدَاعِيَّةِ): سب۔ ج الدواعی۔ داعی اللین: دودھ کا وہ حصہ جو تھن میں چھوڑ دیا جائے تاکہ بقیہ دودھ آسانی سے دوہا جاسکے۔ وَدَوَاعِي الصُّدْرِ: فکروم۔ وَدَوَاعِي النَّهْرِ: زمانہ کی گروہیں۔
 المدعاة: کھانے کی دعوت۔ سب۔
 دَعْدَغٌ دَعْدَغَةٌ: فَلَانًا بِكَلِمَةٍ: طعن و تشنیع کرتا۔
 الدَّعْدَغَةُ: پھپھی گنگلو کرتا۔ چھپانا۔
 استہزاء کرتا۔ گدگدی کرتا۔ عوام گدگدی کے لئے "زَحْزَكُ وَالزَّحْزَكَةُ": بولتے ہیں۔
 المَدْعُغُ: حسب و نسب میں عیب دار۔
 دَعْرَةٌ (ف) دَعْرًا دَعْرًا: بٹانا۔

ذَعَرَتِ السَّرْوَةَ حَلَقَ الصَّبِيِّ: انگلی سے دبانا..... اَلْأُمُّ اِبْنُهَا: آسودگی سے کم دودھ پلانا۔ وَعَزَّ الشَّيْءُ فِي الشَّيْءِ: ملانا..... ہ: بھینچ کر مار ڈالنا..... فِي الْبَيْتِ: داخل ہونا۔ عَلَيْهِ: اچانک آنا۔
 ذَعَرَ (س) ذَعْرًا. الرَّجُلُ: بدخلق و کمینہ ہونا۔ صفت (ذاعر)
 ذَعَرَ (س) ذَعْرًا وَذَعْرَى. عَلَيْهِمُ: لوگوں پر اچانک پہنچ جانا۔
 اِنْدَعَرَ: پہنچ جانا..... عَلَيْهِ: اچانک آنا۔
 الداعر: ذلیل۔ حقیر۔ خبیث۔ مفسد۔
 الذعرة: کسی چیز کو اچک کر لے لینا۔
 المذعرة: گھسان کی جنگ۔
 ذَعَشَ: (ف) ذَعْشًا وَادْعَشَ: تاریکی میں داخل ہونا۔ ذَعَشَ عَلَيْهِمُ: اچانک آنا۔
 ذاعشة: بھیڑ کرنا..... حَوْلَ الْمَاءِ: پیاس کی وجہ سے پانی کے گرد منڈلانا..... الْمَاءِ: جلدی پینا..... فِي الشَّيْءِ: کسی چیز کو حرم کی وجہ سے کسی سے مکر سے طلب کرنا..... ظَلَمَةٌ اللَّيْلِ: رات کی تاریکی میں بغیر کسی سستی کے چل پڑنا۔
 تَدَاعَشَ. الْقَوْمُ (وَدَعَوْشُوا): آپس میں لڑ جانا۔
 الذعش والذعشة والذعشة: تاریکی۔
 ذَعِصَ (س) ذَعْصًا: خوراک یا غصہ سے بھرتا۔
 ذاعص مُدَاعِصَةً: فی العمل: جلدی کرنا۔
 اذعصه: غصہ سے بھر دینا۔ اذعصه الموت: فوراً موت کا آنا۔
 الذاعصه: گٹھے کی چپٹی۔ عوام اس کو صابونہ السركية: کہتے ہیں۔ گٹھا ہوا گوشت۔ رقیق پانی۔ ج ذواعص۔
 الذعصان: غمبناک۔
 ذَعَفَ (ف) دَعْفًا. الشئ: جتنی سے پکڑنا۔
 دَعْفَهُمُ الخَرُّ: گرمی کا زیادہ ہونا۔

أَبُو الدَّخْفَاءِ: بے وقوف۔
 الدخفل: ہاتھی یا بھیڑیے کا بچہ۔ بہت سے پر۔ عَشَشَ دَخْفَلِيًّا: آسودہ زندگی۔ عام دَخْفَلِيًّا: سرسبز سال۔ فراخی کا سال۔
 دَخَلُ (ف) دَخْلًا: فِيهِ: جہم کی طرح داخل ہونا۔
 اَدَخَلَ. الرَّجُلُ: درختوں کے جھنڈ میں داخل ہو کر چھپ جانا..... الْأَرْضُ: گنجان درختوں والی ہونا..... بِسَهْ: خیانت کر کے اچانک مار ڈالنا۔ چغل خوری کرنا..... الشئ: تباہ کن چیز ملادینا۔
 الدخلة ج اذغال و دغال و (الدغيلة): درختوں کا جھنڈ۔ فساد و تباہی۔ خوف و ہلاکت کی جگہ۔
 مکان (دخلة): گنجان درختوں والی جگہ۔ پوشیدہ۔
 الداعلة: بالٹنی کینہ۔ کسی کے عیوب و خیانت تلاش کرنے والے لوگ۔
 الدعاول: مصیبتیں (جس سے بغیر واحد کے) المدخل: وادی کا درمیانی حصہ۔ ج مداخل۔
 دَعَمَهُمْ وَدَعَمَهُمُ (ف س) دَعَمًا وَدَعَمَانًا. الخَرُّ أَوِ الْبَرْدُ: گرمی یا سردی کا پڑنا..... دَعَمَ أَنْفَهُ: توڑنا۔ دَعَمَ الْإِنَاءَ: ڈھانپنا۔
 اذعمه. الله فَلَانًا: سیاہ رو کرنا۔ ذلیل کرنا۔
 اذعمهم الخرا و لبرد: گرمی یا سردی کا پڑنا۔
 الفرس اللجام: لگام لگانا۔ اذعمه الشئ: گھمٹن کرنا۔ اذعم الرجل: لقمہ کو بغیر چپائے ہوئے لگانا۔ (..... واذعمه الشئ فی الشئ: ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا اسی سے صرفیوں کی اصطلاح اذعام (ایک حرف دوسرے حرف میں شامل کرنا) ہے۔
 اذعام. الفرس (اذغيماما): بقیہ جسم سے منہ کا زیادہ سیاہی مائل ہونا۔ صفت (اذغم)
 الذعم والذعمه: گھوڑے کا رنگ جس کا

منہ باقی جسم سے زیادہ سیاہی مائل ہو۔
 الاذغم: کالی ناک والا۔ ناک میں بولنے والا۔ ج ذغم۔
 الذغام: حلق کا درد۔
 دغمرة دغمرة: عیب لگانا۔ الشیء لانا۔
 الرجل: بدخلق ہونا۔
 الدغمیری والدغمیری: برے بھلے طے اطلاق والا۔ رجل (دغمور): مرد بد خو۔
 الذغامیر: قوم کے گھٹیا درجہ کے لوگ۔
 ذف (ض) ذفا و ذفینا: آہستہ چلنا۔ لہ الامور: تیار ہونا۔ ممکن ہونا۔ الطائر: پر پھڑ پھڑانا۔
 ذف (ض) ذفا، الشیء جز سے اکھیرنا۔
 ذفف و ذاف: جلدی کرنا۔ ذفف الجرجین و ذافہ و ذاف علیہ: پوری طرح سے فوراً مار ڈالنا۔ و ذفف الرجل: دف بجانا۔
 آذف اذفا۔ الطائر: پر پھڑ پھڑانا۔ آذف علیہ الامور: پے در پے آنا۔
 (..... و نذاف) القوم: ایک دوسرے کے پیچھے سوار ہونا۔
 استذف الطائر: زمین کے قریب اڑنا۔
 الامر: درست ہونا۔ پورا ہو جانا۔
 الرجل بالمؤنسی: استرے سے موٹنا۔
 الذف: مہم۔ ہر چیز کا پہلو۔ کہا جاتا ہے "رماہ اللہ بذات الذف" اللہ اس کو مونی میں مبتلا کرے۔
 (..... الذف): ایک قسم کے ہاجکا نام۔ ج ذفوف۔
 الذفة: ہر چیز کا پہلو۔ ذفا الطیل: ڈھول کے دونوں طرف کے چڑے۔ چوار (آ خر معنی میں کلمہ مولدہ ہے۔ اس کے لئے فصیح لفظ السکان ہے)
 المدافة: دشمن کی طرف مارچ کرنے والی فوج۔ لوگوں کی جماعت جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہوتی رہے۔

الذفاف: دف بجانے والا۔ دف بنانے والا۔ اقرب الموارد میں بحوالہ لسان العرب ہے کہ دفاف مالک دف کو مذقف: بنانے والے کو اور مذدف: بجانے والے کو کہتے ہیں۔
 الذفوف: من الطیر: کسی چیز پر ٹوٹ پڑنے وقت زمین سے قریب ہونے والا پرندہ۔
 ذفی ینذفا ذفا و ذفوة او ذفوا ینذفوا ذفاعة من البرد: گرم ہونا۔ گرمی محسوس کرنا۔ ذفاعة: گرم کرنا۔
 اذفاعة: گرم کپڑا پہنانا۔ بہت دینا۔ گرم کرنا۔ الجرجین: فوراً مار ڈالنا۔ القوم: جمع کرنا۔
 تذفا و اذفا و استذفا: گرم کپڑا پہنانا۔ گرم ہونا۔
 السدفا: سخت گرمی۔ ج اذفاعة: اونٹوں کی پیداوار اور جو اس سے نفع حاصل ہو۔ عطیہ ذفا الحانط: دیوار کی اوٹ۔ کہا جاتا ہے "أقعد فی ذفاعة الحانط": وہ دیوار کی اوٹ میں بیٹھا گیا۔ گرم کپڑے۔ گرمی حاصل کرنے کا سامان۔ تم کہتے ہو "ما علیہ ذفاعة": اس پر گرمی حاصل کرنے کا کوئی سامان نہیں۔
 الذفا: مہم۔ کندھے کا سینہ کی طرف جھکانا۔
 الذفاعة: گرمی حاصل کرنے کا سامان۔ (کپڑا وغیرہ)
 الذفی الذفی: گرمی حاصل کرنے والا۔ گرم کپڑے پہننے والا۔ مؤنث ذفینة و ذفینة۔ الذفینة من الأرضی: گرم زمین۔
 الذفان: گرمی حاصل کرنے والا۔ مؤنث ذفای۔
 الأذفا: وہ شخص جس کا کندھا سینے کی طرف جھکا ہوا ہو۔ مؤنث ذفای۔ الأذفاعة: مرد خیمہ نشین۔
 أرض (مدفاعة): گرم زمین۔
 ایل (مدفینة مدفاعة و مدفینة و مدفاعة): بہت اون اور چربی والا اونٹ۔

الذفر: رجسٹ۔ کاپی۔ ج ذفاتیر۔
 ذفرة (ن) ذفرا: سینہ میں مار کر ہٹانا۔
 ذفر (س) ذفرا و ذفرا: ذیل ہونا۔
 اللحیم: کپڑے پڑنا۔ الشیء بد بودار ہونا۔ صفت (ذفر و اذفر): مؤنث۔ ذفيرة و ذفراء: سخیبہ ذفراء: لشکر جس سے لوہے کے رنگ کی بو آئے۔
 اذفر: الرجل: تیز گندہ بخل ہونا۔
 الذفر: مہم۔ بد بو۔
 ذفران: مہم۔ صوبہ کی ایک قسم۔
 لونی (یہ کلمہ لونی کے لئے گالی کے موقع پر کہا جاتا ہے اور اکثر نداء کے موقع پر آتا ہے)۔
 الذفران: صوبہ کی ایک قسم۔
 أم ذفر و أم ذفر: دنیا۔ مصیبت۔
 اذفس: اذفسا۔ الرجل: بغیر بیماری کے چہرہ کا کالا پڑنا۔
 ذفص (ض) ذفصا: بکڑے بکڑے کرنا۔
 ذفطس: الرجل: اپنا مال ضائع کرنا۔
 ذفعا (ف) ذفعا و ذفعا و مذفعا: بنانا۔ دور کرنا۔ ذفعا فی کذا: داخل ہونا۔
 (..... الذی الشیء): ادا کرنا۔ القول: دلیل سے باطل کرنا۔ ہ ابی کذا: مجبور کرنا۔
 عنہ الاذی: بچانا۔ محفوظ کرنا۔ عن الموضع: کوچ کرنا۔ چھوڑنا۔ (..... الذی): بچنا۔ کہا جاتا ہے "طریق ینذفعا الی مکان کذا": راستہ جو فلاں جگہ تک بچتا ہے۔
 ذفع: الی مکان: بچنا۔
 ذافعة مذافعة و ذفاعة: مزاحمت کرنا۔
 عنہ: حمایت کرنا۔ مدد کرنا۔ عنہ الاذی: بنانا دور کرنا۔ ذافعة عن حقہ: مال منول کرنا۔
 تذفع: السیل: زور سے بہنا۔
 اذدفع: السیل: زور سے بہنا۔
 فی سیرہ: تیز دوڑنا۔ الرجل فی الحدیث: بات چیت میں مشغول ہونا۔
 اذدفع یقول: کہنے لگنا۔ اذدفع الرجل: ہٹنا۔

تَدْفَعُ الْقَوْمَ: ایک دوسرے کو ہٹانا۔ تَدْفَعُوا الشی: ہر ایک کا دوسرے کے ذمہ ڈالنا۔ کہا جاتا ہے "ضیف یصدفہ الخی": مہمان جس کو قبیلہ کے لوگ ایک دوسرے کے ذمہ ڈالتے ہیں۔

اِسْتَدْفَعُ: اللہ الشیر: شر کو ہٹانے کی دعا کرنا۔

الدَّفْعَةُ: دفع کا اسم مرۃ۔

البدفعة: بوجھار۔ برتن یا مشک سے ہتھنا ایک مرتبہ کرے۔ ج دفع و دفعات۔

الدوافع: نشیب زمینیں جہاں سیلاب کا پانی جمع ہو جائے۔

الدفع: بہت ہٹانے والا۔

مِنَ الدَّوَابِّ: آلات مارنے والا۔

الدَّفَاعُ: بہت دفع کرنے والا۔

الدَّفَاعُ: ملک اور اس کی سرحدوں کی حفاظت بری بحری اور فضائی ذرائع سے کرنا۔

الدَّفَاعُ: موج یا سیلاب کا زور۔ بہت لوگ۔

کہا جاتا ہے "جاء فی دَفَاعٍ مِنَ النَّاسِ": وہ بہت لوگوں میں آیا۔

المَدْفَعُ: پانی بہنے کی جگہ۔ ج مدافع۔

المدفع: وہ اوزار و ہتھیار جن کے ساتھ ہم پھینکے جاتے ہیں۔ ان میں سے چند درج ذیل ہیں مدفع: توپ۔ مدفعۃ مضادۃ لسلطانیرات: طیارہ شکن توپ۔ مدفع المدزی: ایٹم بم پھینکنے کا میزائل۔ قاذف الصوارنج: راکٹ گرانے والا۔

المدفع: ہٹانے کا اوزار۔ توپ۔ ج المدفع مدافع۔ المدفع: بہت دفع کرنے والا۔

المدفع: ہر جگہ سے دھتکارا ہوا فقیر۔

دَفَقَ (ض ن) دَفَقًا: الماء: زور سے گرنا..... اللہ زوخہ: موت دینا..... الکوز: گرا کر خالی کر دینا۔

دَفَقَ (ن) دَفَقًا وَدَفَقًا: الماء: گرنا..... السَّهْرُ: بھر کر بہنا (جمہور کے نزدیک اس کا استعمال صرف متعدی ہی کی صورت میں ہوتا ہے)

دَفَقَ: لَمَّا: كما قاله۔ کہا جاتا ہے "دَفَقَتْ كَفَّاءُ اء": یعنی اس کے دونوں ہاتھوں نے بہت زور بخشش کی۔

أَدْفَقَ: اء: گرا کر خالی کر دینا۔

تَدَفَّقَ رَا: تَدَفَّقَ: الماء: گرنا..... الذابئة: تیز دوڑنا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ يَتَدَفَّقُ فِى النَّاطِلِ" فلاں باطل میں سبقت کرتا ہے۔

أَدْفَقَ وَاسْتَدْفَقَ: الماء: گرنا۔

الدَّفَقَةُ: ایک دفعہ۔ کہا جاتا ہے "جائوا ذفقة" وہ سب یکبارگی آ گئے۔

سَبَلُ دَفَاقٍ: بہت زیادہ سیلاب جو وادی کے دونوں کناروں کو بھر دے۔

الادْفَقِي: تیز جا۔ فکر یا بڑھاپے کی وجہ سے خمیدہ کر۔ سبر ادفق: تیز چال۔ مؤنث دَفَقَاءُ۔

السدفقی: تیز حال۔ کہا جاتا ہے "مخسى الدفقی" وہ تیز چال چلا۔ (..... والدیفقة: تیز رفتار اونٹنی یا گھوڑا۔

البدفل: قطران (دیکھئے قطران) زفت (ایک دوا کا نام) کبیر۔

البدفلی: کبیر۔ ایک جماعت کے نزدیک الف الحاق کا ہے اس لئے اس پر تون آتی ہے اور دوسروں کے نزدیک تانیث کا اس لئے تون نہیں آتی۔

دَفَقَ (ض) دَفَقًا: المیت: گاڑنا۔ دفن کرنا..... الحدیث: چھپانا..... الاہل: تیز دوڑنا..... الاہل: تیز دوڑنا۔

تَدَفَّقَ وَانْدَفَقَ: چھپنا..... الاہل: تیز دوڑنا۔

ادْفَقَ: العبد: آقا کے خوف سے بھاگنا۔ صفت (دَفَقُونَ)..... الشی: چھپانا۔

تَدَافِنُ: القوم: باہم چھپانا۔

دَافِنُ: الامر: کسی معاملہ کا اندرونی حصہ۔

الدفن: بمس۔ دفن کیا ہوا۔ ج ادفان: مدفون زمین۔ ج دفن۔ رجل دفن: گناہم و بے قدر مرد۔

داء (دَفَنٌ وَدَفِنٌ): پوشیدہ بیماری جس کے

ظاہر ہونے سے خرابی بڑھ جائے۔

الدَفِيسَةُ: گاڑا ہوا۔ گاڑا ہوا خزانہ۔ ج دَفَانِینُ: کہا جاتا ہے "فَلَانٌ يُبْسِرُ الدَفَانِینَ" فلاں بڑا عالم ہے۔

السدفین: دفن کیا ہوا۔ چھپا ہوا۔ ج دَفِنٌ وَدَفْنًا وَأَدْفَانٌ: حوض۔ ریحیۃ دَفِینٌ: دفن شدہ کنواں۔ امراۃ دَفِینٌ: پوشیدہ عورت۔ ج دَفِنِی: داء دَفِین: پوشیدہ بیماری جس کے ظاہر ہونے سے خرابی بڑھ جائے۔ کہا جاتا ہے "هُوَ دَفِینُ السُّرُوۃِ اَوْ دَفِنُ السُّرُوۃِ": وہ بے مرآت ہے۔

الدفان: جن الرکابا: مٹی سے بنا ہوا کنواں ج دَفِنٌ: کہا جاتا ہے "مساء دَفَنان" پوشیدہ پانی۔

الدَفَانِینُ: کشتی کے تختے۔ واحد (دَفَانٌ) المدفین: گاڑنے کی جگہ۔

السدفیس والدفناس: کمینہ و بے وقوف۔ تجمل۔

مِنَ النِّسَاءِ: بے وقوف۔ بھاری جسم کی عورت۔

الذافہ: مسافر۔

دَفَا (ن) دَفَوًا وَدَافِيًا مُدَافَاةً وَأَدْفِيًا: إِدْفَاءُ: الخیرینج: فوراً مار ڈالنا۔ وادْفِي الطبی: لمے سینگوں والا ہونا۔

تَدَافَاةً: تلافی کرنا۔

الدَفَاءُ: خمیدگی۔

الادْفِي: خمیدہ۔ مؤنث دَفَوًا: طائر ادْفِي: لمے بازوؤں والا پرندہ۔ نَسَاقَةُ دَفَوَاءُ: لمبی گردن والی اونٹنی۔ شَجَرَةُ دَفَوَاءُ: بڑا درخت۔ عَسْقَابُ دَفَوَاءُ: تیزھی چوچ والا عقاب۔

دَفِي (ض) دَفَقًا: باریک ہونا۔ بچھوٹا ہونا۔ دَفِیقٌ وَدَشْوَارٌ ہونا۔

دَفِي (ن) دَفَا: الشی: توڑنا..... النَّبَابُ: کھلکھانا..... الشی: ظاہر کرنا..... الشی: علی الشی: اوبالشی: کوٹنا۔

دَفَقَ: الشی: بہت باریک کرنا۔ آنا کرنا

..... فی الحساب وغیرہ: باریک بینی سے کام لینا۔

إِدْقَهُ إِدْقًا: باریک کرنا..... الرَّجُلُ بَكَرَى دِينًا: کہا جاتا ہے "اَتَيْتُهُ فَمَا أَدْقِي بِي وَلَا أَجَلِّي" میں اس کے پاس آیا تو اس نے نتو تھوڑا دینا زیادہ۔ أَدَقَ الرَّجُلُ: بخل کی وجہ سے معمولی چیز کے پیچھے پڑنا۔

ذَاقَتْهُ مُدَاقَةً: الْحِسَابُ فِي الْحِسَابِ: غور سے جانچ کرنا۔

إِنْدَقَ إِنْدِقًا: باریک ہونا۔ إِنْذَقْتُ عُنُقَهُ: ٹوٹنا۔

تَذَاقَ الرَّجُلَانِ: باریکی میں مقابلہ کرنا۔ إِنْذَقَ إِنْذِقًا: پتلا و باریک ہونا اور اسی سے ہے "إِنْذَقَ الْهَيْلَالُ" ہلال باریک ہے۔

الذَّقِيُّ: باریک تھوڑا اور اسی سے ہے "أَحَدْتُ دِقَّهُ وَجَلَّهُ" میں نے قلیل و کثیر سب لے لیا۔ حَمَى الدَّقِ: دق کا بخار۔

الذِّقَّةُ: کوٹنے کی ہیئت۔ حَسْتٌ۔ چھوٹائی۔ باریکی اور اسی سے ہے "دِقَّةُ الْمَعَانِي" معانی کی باریکی۔

الذِّقَّةُ: باریک خاک کے۔ مصالحے نمک۔ و خنیا۔ خوبصورتی۔

الذِّقَاقُ: چورہ۔ آٹا..... وَالذِّقَاقَةُ: باریک خاک جس کو ہوا اڑائے۔ ذِقَاقُ الْعَيْدَانِ وَذِقَاقُهَا: جھپٹی۔

الذِّقِيقُ: باریک۔ آٹا۔ مشکل معاملہ۔ تھوڑا۔ رَجْ ذِقَّةً وَأَدْقَاءَ: مَوْنَتْ ذِقِيقَةً.

الذِّقِيقَةُ: دق کی مَوْنَتْ۔ منٹ۔ درجہ کا ساٹھواں حصہ۔ رَجْ ذِقًا۔ اِنْبِق.

الذِّقِيقَةُ: بکریاں۔ کہتے ہیں "حَكْمٌ ذِقِيقٌ": تمہاری بکریاں کتنی ہیں؟

الذِّقَاقُ: بہت کوٹنے والا۔ آٹا بیچنے والا۔ الذِّقَاقَةُ: کوٹنے کا اوزار۔

الذِّقِيُّ وَالْمُدْقِيُّ رَجْ مَذَاقٍ وَ(الْمِدْقَةُ) : کوٹنے کا اوزار۔

الْمُدْقَةُ: تیر۔ باریک کوٹا ہوا گوشت۔

الْمُدْقُوقُ: مفتح۔ دق کے بخار والا۔

الْمُدْقَةُ: پھولوں کی ایک درمیانی قسم۔ مَوْنَتْ کا عضو تاسل۔

مُسْتَدِقٌ. السَّاعِدُ: کلائی کا پتلا حصہ۔

مُسْتَدِقٌ كُحْلِي حَسِيٌّ: ہر چیز کا باریک و پتلا حصہ۔

ذَفَذَقَ. النَّاسُ: شور مچانا۔

الدَّوَابُّ: سم کی آواز سنا کر دینا۔

ذَقِرَ (س) ذَقْرًا: شگم سیر ہونا..... السَّمْحَانُ: ہبزہ زار ہونا..... النَّبَاتُ: زیادہ ہونا۔

..... الرَّجُلُ: شگم پڑی کی وجہ سے تے کرنا۔ الذَّقْرُ وَالذَّقْرَةُ وَالذَّقِيرَةُ وَالذَّقْرِيُّ: سرسبز و خوبصورت باغ۔

أَرْضٌ (ذَقْرَاءٌ): سرسبز و نمناک زمین۔

الذَّقْرَانُ: کبڑی جس پر انگور کی تیل چڑھائی جائے۔ واحد ذَقْرَانَةٌ.

الذَّقْوَرَةُ: بجز زمین جو پہاڑوں کے درمیان ہو۔

الذَّقْرَارُ: جاگھیا۔ رَجْ ذَقَارِيو.

الذَّقْرَارَةُ: چغلی۔ بُرِي عَادَتٌ۔ جھگڑا۔ رَجْ ذَقَارِيو: کہا جاتا ہے "جَاءَ بِالذَّقَارِيو" وہ قبیح قسم کی چھوٹی چیزیں لایا۔ جاگھیا۔ پانچامہ۔

رَجُلٌ ذَقْرَارَةٌ: چغل خور۔ پست قد۔

ذَقْسِي (ن) ذَقْسًا وَذَقْسُوسًا. فِي الْبِلَادِ: حَسَّ جَانَا..... الْوَتْدُ فِي الْأَرْضِ: كُرٌّ جَانَا..... الْبِنُو: بھر دینا۔

الذَّقْسَةُ: ایک چھوٹا سا جانور۔

ذَقِيعٌ (س) ذَقْعًا: تھوڑے سے گزارہ پر راضی ہونا۔ ذلت اور فقر کی وجہ سے خاک نشین ہونا۔

أَذَقَعَهُ: محتاج بنا دینا۔ ذلیل کرنا۔

أَذَقَعَ بِهِ وَالْيَهُ فِي الشَّحْمِ وَنَحْوَهُ: گالی دینے میں مبالغہ کرنا۔ أَذَقَعَ الرَّجُلُ: مٹی میں ملا ہوا ہونا۔

الذَّقِعُ: فَا۔ رَجْعِيده۔ تھوڑی کمائی کا طالب۔ الأَذَقِعُ: مٹی۔ جُوعٌ أَذَقِعُ: سخت بھوک۔

الذَّقَاعُ وَالذَّقَاعُ وَالذَّقِيمُ: مٹی (ذَقِيمٌ میں

میسر زائد ہے)

الذَّقَاءُ: مٹی۔ بجز زمین۔

کہا جاتا ہے "زَأَيْتُ الْقَوْمَ" (صَفَقْتِي دَقْعِي): میں نے قوم کو خاک نشین دیکھا۔

الذَّقِيْعُ: سخت بھوک۔

الذَّقِيقَةُ: فقیری۔ ذلت۔

الْمُدْقِعُ: زمین پر پلک دینے والا۔ ذلیل۔ بھاگنے والا۔ دہلا۔ جُوعٌ مُدْقِعٌ: سخت بھوک جو زمین پر گرا دے۔

السِّدْقَاعُ: لاپچی۔ تھوڑے پر راضی ہونے والا۔ رَجْ مَذَاقِيعٍ.

ذَقْلَهُ (ن) ذَقْلًا: منع کرنا۔ باز رکھنا۔ محروم کرنا۔ ناک یا منہ پر مارنا..... ذُقُوا لَوَاغًا:

غائب ہونا..... فِيهِ: داخل ہونا۔

أَذَقَلَ. النَّخْلُ: رودی کھجور والا ہونا۔

..... الرَّجُلُ: کمزور بچہ والا ہونا..... الشَّافَةُ: دہلی و کمزور ہونا۔ صفت مُدْقِلٌ.

الذَّقَلُ: رودی کھجور۔ بادبان کا ڈنڈا۔ کہا جاتا ہے "أَزَاكَ أَطْوَلُ مِنَ الذَّقَلِ وَأَنْتَ تَشْرُ كَلَامَكَ نَسْرَ الذَّقَلِ": میں تم کو دیکھتا ہوں کہ بادبان ڈنڈے سے بھی زیادہ لمبے ہو اور گنگٹھور دی قسم کی کرتے ہو۔

الذَّقَلُ: جسم کی ناتوانی۔

الذَّقَلَةُ وَالذَّقِيلَةُ وَالذَّقِيلَةُ: دہلی پتی بکری۔

رَجْ ذَقَالٌ وَذَقَائِلٌ

ذَقْمَةٌ (ن) ذَقْمًا: اچانک سینہ پر مار کر دھکا دینا۔ دانت توڑنا..... الرَّيْحُ عَلَيْهِ: ہوا کا آنا۔

ذَقِمَ (س) ذَقْمًا: اگلے دانتوں کا گرنا صفت ذَقِمٌ وَأَذَقِمُ.

أَذَقِمَ. فَاهُ: اگلے دانتوں کو توڑنا۔

الذَّقِمُ: سخت نم۔

الذَّقِمَةُ: منہ کا اگلا حصہ۔

الذَّقِمُ: نقصان۔

ذَقِنَ (ن) ذَقْنَا. فِي لِحَى الرَّجُلِ: ٹھنڈی پر منہ مارنا۔ ذَقْنَهُ: منع کرنا۔ باز رکھنا۔ محروم کرنا۔

الدُّكْحَانِي: دکان والا۔
 ذَلَّةُ (ن) ذَلَالَةٌ وَذُلُولَةٌ وَدَيْلِيٌّ. إِلَى الشَّيْءِ وَعَلَيْهِ رَاسِتَةٌ وَكَمَا تَا رَهْنَمَانِي كَرْنَا۔ (ض) ذَلًّا وَذَلَالًا وَذَلًّا (س) ذَلَالًا نَا زَوْجَرَه كَرْنَا۔ الْمَرْءُ عَلَى زَوْجِهَاتِهِ يَتَاوَلِي مَخَالَفَتَ كَرْنَا۔ السَّرْجُلُ: فِخْرٌ كَرْنَا۔ اِجْنِي دَاوُدُ وَبَشِ كَا اِحْسَانُ جَتَانَا۔
 اَذَلُّ اِذْلَالًا. عَلَيْهِ مَحَبَتٌ پَر بھروسہ کرنا اور اسی سے ہے "اَذَلُّ فَاَسَمَلُ" اس نے محبت پر بھروسہ کیا اور ملول کر دیا۔ دلیری کرنا۔
 عَلِيٌّ اَقْرَابِيہ: اوپر سے دبا لینا۔ اَلْبَسَانِي عَلِيٌّ صَبِيحَه: اوپر سے جھپٹا مارنا۔ اور کہا جاتا ہے "هُوَ يُدِيلُ بِهِ" وہ اس پر بھروسہ کرتا ہے "اَذَلُّ بِالطَّرِيقِ" پہچانتا۔
 تَذَلَّلُ عَلَيْهِ: گستاخی و جرات کرنا۔
 الْمَرْءُ عَلَى زَوْجِهَاتِهِ يَتَاوَلِي مَخَالَفَتَ كَرْنَا۔ اِنْذَلُّ رَاسِتَةً يَانَا۔ الْمَاءُ: كَرْنَا۔ اِسْتَذَلُّ عَلَيْهِ رَهْنَمَانِي كَرْنَا كُو كَهْنَا۔ اِسْتَذَلُّ بِكَيْدَا عَلِيٍّ اَلْاَمْرُ: دِلیل کرنا۔
 الذَّلَالَةُ دَالٌ: كَا مَوْنُثٌ نَا زَوْجَرَه۔ جَرَاتٌ وَدَلِيرِي۔ كَهَا جَاتَا ہے "لَهُ عَلَيْهِ ذَالَةٌ" اس کو اس کے اوپر ناز ہے۔
 السَّدَلُ: مِصٌّ۔ سَكُونٌ وَاطْمِينَانٌ كِي حَالَتِ۔ اَجْبِي سِيرَتِ۔
 الدَّلَالُ: مِصٌّ۔ نَا زَوْجَرَه۔
 الذَّلُولَاءُ: نَا ز۔
 اَلْبِدَالَةُ: دِلَالِي كَا پِشَر۔ دِلَالِي يَار بھیر کی اُجْرَتِ۔
 اَلدَّلَالَةُ: رَهْنَمَانِي، دِلِيلٌ، مَرشَدٌ، سِيَا حُوں كِي رَهْنَمَانِي كَرْنَا۔ اَلدَّلَالَةُ: مَرشَدٌ، كَارْدُ دِلِيلِ اَلْخُلْفِ: رِيَاضِي كَسْمَلَه مِیں مَخَالَفَتِ كَس بَدَلْنِي پَر دِلِيلِ قَا تَم كَرْنَا۔
 الدَّلَالُ: خَرِيدَار اور بِيچنے والے کے درمیان كَا آوِي۔
 اَلدَّلِيلُ جِ اَوَّلَةٌ وَاِذْلَاءٌ وَ(اَلدَّلَالَةُ) جِ دَلَالِي: مَرهه جِز جس سے رَهْنَمَانِي ہو سكتے۔
 حِجَّتِ وَدِلِيلِ۔ اَلدَّلِيلُ: رَهْنَمَانِي۔ مَرشَدِ۔

و(الدُّكْحَانِي) جِ دَكَا دِيك نَحْتِ: زَمِينِ۔
 دَكْسُ (ن) دَكْسَا. الشَّيْءُ: بھیرنا۔
 دَكْسُ (س) وَتَكْسَا. الشَّيْءُ: تَدْبِتَه ہونا۔
 اَدَكْسُ. المَكَانُ: سَبْزِي ظَاہِر ہونا۔
 اَلدَكْسِيَّةُ: مِیں النَّاسِ: لُوگوں كِي جَمَاعَتِ۔
 اَلدَكْسُ: قَا۔ چھینك وغيره سے بد قَالِي۔
 اَلدَكْسُ مِیں اَطْبَاءِ: وَه بَرَن جُو بِيچھے سے آئے اور اس سے بد قَالِي لِيَا كَرْتے تھے۔
 اَلدَكْسَا: اَوْدُغھ۔
 اَلدَكْسُ: شِير۔ بھت چوپائے اور كَبْرِيَاں۔
 دَكْلُ (ن) ض) دَكْلًا. الطَّيْنُ: لِيپِنے كے لِيے ہاتھ سے مٹی جَمْع كَرْنَا۔ الشَّيْءُ: رَوْنَدْنَا۔
 دَكْلُ. اَلذَّابَةُ: جَانُو رُو كُو مِیں لُو تَا نَا۔
 تَدَكْلُ: اِيپِنے آپ كُو بَرَا بھجنا۔ عَلَيْهِ: نَا ز كَرْنَا۔ غَنَه: دِير كَرْنَا۔
 اَلدَكْلَةُ: پَنلَا گارا۔ اِيپِنے آپ كُو بَرَا بھجنے والے لُوگ۔
 اَلادَكْلُ: سِيَا بِي مائل۔
 اَلدَكِيلُ: رَوْنَدَا ہوا۔
 دَكْمُ (ن) دَكْمَا. الشَّيْءُ: بَعْضُ كُو بَعْضِ پَر كُو تَا۔ ه فِئِي صَدْرِه: سِينَه پَر مَار كَر بھانا۔
 فَاهِ اَوْتَانْفَه: مَنَه يَانَا كِ تُو زُ تَا۔
 الْمَرْءُ: جَمَاعٌ كَرْنَا۔
 دَكْمَةُ فِي الشَّيْءِ: دَاخِل كَرْنَا۔ ه فِي زَايِبِه: مِیں سِيَنگ سے مَارنا۔
 تَدَاكْمُ. الْقَوْمُ: اِيك دُوسرے كُو بھانا۔
 اَلدَكْمَةُ: سِيَا بِي مائل رَنگ۔
 دَكْنُ (ن) دَكْنَا وَدَكْنُ. المَتَاعُ: تَدْبِتَه رَكْنَا۔ دَكْنُ اَلدَكْنَانُ: دَكَا ن لگانا۔
 دَكْنُ (س) دَكْنَا: سِيَا بِي مائل ہونا۔ صَفْتِ (اَدَكْنُ): مَوْنُثٌ دَكْنَاءُ. جِ دَكْنُ۔
 الْقُوْبُ: مِيلَا وَاوْدَا لُو دُو ہونا۔
 اَلدَكْنَةُ: سِيَا بِي مائل رَنگ۔
 اَلدَكْنَانُ: دَكَا ن كَا چوپترہ۔ جِ دَكَا كِي جِينِ: (كَلْمٌ فَا رَسِيہ ہے)

دَكُّ (ن) دَكْمَا. السَّحَابُ: دِيوار گرا کر زَمِينِ كے برابر كَرْنَا۔ اَلْاَرْضُ: ہموار كَرْنَا۔
 التَّرَابُ: مِثْلِي كُو ت كَر ہموار كَرْنَا۔ اَلْبَشَرُ: كِنُو مِیں كُو مِثِي وَ اَل كَر پَانَا۔
 التَّرَابُ عَلِيٌّ اَلْمِيَّتِ: مِيَّتِ پَر مِثِي ذَا نَا۔ ه وَه كَا دِينَا۔ اَلذَّابَةُ فِي السَّبْوِ: جَانُو رُو كُو تَحْتَا نَا۔
 كَهَا جَاتَا ہے "دَكْبُ اَلْحَمِي الرَّجُلُ" بِيخَار نے مَر د كُو كَمُز و ر كَر دِيَا۔
 دَكُّ: مَرِيضٌ ہونا۔
 دَكْكُ. الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: مَلَانَا مَحْلُو ط كَرْنَا۔
 اِنْدَكُّ: ہموار ہونا۔ السَّرْجُلُ: رِيَّتِ كَا تَدْبِتَه ہونا۔ اَلسِنَامُ: كُو ہَا ن كَا پِشَر كے برابر ہونا۔
 تَدَاكُّ. عَلَيْهِ الْقَوْمُ: بھيڑ كَرْنَا۔
 اَلدَكُّ: مِصٌّ۔ ہموار زَمِينِ۔ ہموار جگہ۔ جِ دَكُّوكِ۔
 اَلدَكُّ جِ دَكْمَكَةُ وَ(اَلدِكْمَاءُ) جِ دَكْمَاءُ اَتِ: نَزْمِ مِثْلِي كَا پِشَر۔ نَزْمِ پِہَاڑ۔ اَلدِكْمَاءُ: پِشَر كُو ہَا ن كِي اَوْتِي۔
 اَلدِكْمَةُ: اِزَار بِنْد۔ صَحْحٌ لَفْظِ اَلدِكْمَةُ ہے۔
 اَلدِكْمَةُ: ہموار رِيگِ سْتَانِ۔ مِٹھنے يَا كَر سِي رَكْنے كے لِيے چوپترہ۔ جِ دَكْمَا كِ۔
 اَلدَكْمَانُ: دَكَا ن۔ چوپترہ۔ جِ دَكَا كِي جِينِ۔
 اَلدَكْمَا كِ: بھت رَوْنَدَنے والا۔ بھت كُو تْنے والا۔
 اَلادَكُّ: چوپترِي پِشَر والا چھوٹا گھوڑا۔
 بَغِير كُو ہَا ن كَا اَوْتَا وَا س سے اسم (اَلدَكْمَكُ) ہے جِ دَكُّ وَ دَكْمَكُ مَوْنُثٌ دَكْمَاءُ. يَوْمٌ اَوْ شَهْرٌ اَوْ حَوْلٌ (دَكْمِيكُ) پُو رَا دِن يَا مِہِينَدِ يَا سَالِ۔
 اَلْمِدْكُ: مَعْضُو ط وَ قُو ي زَمِينِ كُو مَحْتِ رَوْنَدَنے والا مَر د۔ ہموار كَرْنَا كَا اِزَار۔
 اَمَّةٌ (مِدْكَةُ): كَام كَرْنَا مِیں قُو ي بَانْدِي۔
 دَكْمَكُ. اَلْحُفْرَةُ: گُڑھے كُو مِثِي سے بھر دِيَا۔
 تَدَكْمَكُ. اَلجِبَالُ: كَرْنَا۔
 اَلدَكْمَكُ وَ(اَلدِكْمَكُ) جِ دَكَا دِيك

الدَّلَّةُ: احسان۔ تازو خرہ کرنا۔

الادَّلُ: احسان جتانے والا۔

الدَّلِيُّ والدِّلِيَّةُ: واضح راستہ۔

السُّدُلُ: فَا۔ اپنے اوپر اور اپنے سامان پر بھر و سر رکھنے والا۔ السُّدُلُ بِالسَّجَاعَةِ: دلیر۔

الدُّنْبُ: چنار کا درخت۔ واحد (دُنْبَةٌ)

الدُّنْبَةُ: سیاہی۔

الدُّبُّ: چنگاری جو بجھی نہ ہو۔

السُّدُولَابُ والسُّدُولَابُ: زہمت۔ چرخی پر

گھومنے والی چیز۔ ج ذَوَالِيْبُ (دخیل)

السُّدَلْبَةُ: بہت چنار کے درختوں والی

زمین۔

الدُّنْيُوْتُ: ایک قسم کی گھاس کا نام۔

ذَلْتُ (ض) ذَلِيْتُ: قریب قریب قدم رکھنا۔

تَذَلْتُ: إِلَيْهِ: کسی کے پاس گھس پڑنا۔

إِنْدَلْتُ: الرَّجُلُ: خود سر ہونا۔

أَذَلْتُ: الشَّيْءُ: ڈھا کھنا۔

السُّدَلَاتُ: تیز رفتار۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ

دَلَاتٌ وَنَاقَةٌ دَلَاتٌ ج ذَلْتُ وَذَلْتُ"

دلج (ض) ذَلُّوْجًا: کتوں سے پانی نکال

کر حوض میں ڈالنا۔ صفت (ذالِج) ج ذُلْج.

أَذَلِجُ إِذْلَاجًا وَأَذَلِجُ إِذْلَاجًا: القَوْمُ: پوری

رات یا آخری حصہ میں چلنا۔ اسم (السُّدَلْجَةُ

والسُّدَلْجَةُ)

السُّدَلِجُ والسُّدَلْجَانُ والسُّدَلْجَةُ: رات کے

آخری حصہ کا وقت۔

السُّدُولِجُ: سدخانہ (.....) والسُّدَلْجَةُ: وحش

جانوروں کا بھٹ۔

السُّدَلْجَةُ: لکڑی یا چمڑے کا بڑا برتن جس

میں دودھ لے جایا جائے۔ ذُولُ۔

السُّدَلِجُ والسُّدَلْجَةُ: حوض اور کتوں کے

درمیان کا راستہ۔

السُّدَلِجُ: آخری رات میں چلنے کا عادی۔

السُّدَلِجُ والسُّدَلِجُ: سیہی۔

ذَلْحُ (ف) ذَلُّوْحًا: بوجھ کی وجہ سے آہستہ

چلنا۔

تَدَالَحَ: الرَّجُلَانِ الشَّيْءَ بَيْنَهُمَا: کسی چیز کو لکڑی پر اٹھانا۔

السُّدَالِجُ: ج ذُلْجُ وَذَوَالِجُ وَ (الدَّلُوْح) ج

ذُلْجُ: بہت پانی والا بادل۔

فَرَسٌ (ذُلْجُ): سوار کو نہ تھکانے والے گھوڑا

۔ بہت پسینہ والا گھوڑا۔

ذَلِجُ (س) ذَلُّوْحًا: موٹا ہونا..... الاثَاءُ: بھر کر

بہہ پڑنا۔

السُّدَالِجُ: موٹا۔ کہا جاتا ہے بَعِيْرٌ ذَالِجٌ وَابِلٌ

ذُلْجٌ وَذَوَالِجُ.

الدَّلُوْحُ: موٹا۔ ج ذُلْجُ.

ذَلْدَلٌ ذَلْدَلَةٌ: أَعْضَانُهُ أَوْزَانُهُ: چلنے میں

بلا تا۔

تَدَلْدَلُ: فِي مَثَلِهِ: لَزُكْرَانَا.....

السَّيْءُ: نکلنے ہوئے ہلنا۔

السُّدَلْدَلُ وَالذُّدَلْدُولُ: سیہی۔ السُّدَلْدَلُ: بڑا

معاملہ۔

السُّدَلْدَالُ: اضْطْرَابٌ - قَوْمٌ

ذَلْدَالٌ: لَزُكْرَانَا: ہوئی چلنے والی قوم۔

ذَلْسُ: البَالِغُ: سامان کے عیب کو چھپانا.....

السُّمْحَدِيْتُ: محدث کا حدیث کی روایت میں

اپنے راوی کا نام نہ لینا بلکہ اس سے اوپر کے

راوی کا نام لینا اور لفظ ایسا اختیار کرنا جس

میں سماع کا احتمال ہو۔

ذَالْسُهُ مَدْلَسَةٌ: فریب دینا۔ ظلم کرنا۔ کہا

جاتا ہے "هُوَ لَا يُدَالِسُ وَلَا يُوَالِسُ" وہ نہ ظلم

کرتا ہے نہ خیانت۔

أَذَلْسُ: المَكَانُ: موسم گرما کے آخر میں یا

چر لینے کے بعد سرد ہونا۔

تَدَلْسُ: الرَّجُلُ: چھپنا..... السُّطْعَامُ: تھوڑا

تھوڑا لینا..... السُّدَالَةُ: چراگاہ میں تھوڑی سی

گھاس کو چٹ کر جانا۔

إِنْدَلْسُ: الشَّيْءُ: پوشیدہ ہونا۔

الدُّلْسُ: فریب ڈھونکا۔

الدُّلْسُ: نباتات جو موسم گرما کے اخیر میں یا

چر لینے کے بعد سرد ہو جائے۔ ج اذْلَامِسُ

(.....) والسُّدَلْسَةُ: تاریکی۔

ذَلَصَ (ن) ذَلِيْصًا: چمکنا۔ نرم ہونا۔ صفت

(ذَلِيْصٌ) ج ذَلَاْصٌ وَ (ذَلِيْصٌ) ج ذَلِيْصٌ.

ذَلِيْصَتٌ (س) ذَلَاْصَةٌ: النَاقَةُ: بوڑھی اور

گرے ہوئے دانت والی ہونا۔

ذَلِيْصٌ: الشَّيْءُ: چمکدار کرنا۔ کہا جاتا ہے

"ذَلِيْصُ السُّيْلِ الحَجَرُ" سیلاب نے پتھر کو

چمکدار بنا دیا..... السُّدُوْعُ: ملامت کر دینا.....

العَجِيْنُ: بال اُکھیرنا۔

إِنْدَلِصَ: الشَّيْءُ مِنْ يَدِهِ: پھسل کر گرنا۔

..... الشَّيْءُ مِنَ الشَّيْءِ: نکلنا۔

الذَلِيْصُ وَالذَلِيْصَةُ: ہموار زمین۔

السُّدِلَاْصُ: نرم و چمکدار۔ کہا جاتا ہے "ذُوْعُ

ذِلَاْصٌ" نرم و چمکدار زرہ۔

الذَلَاْصُ: نرم و چمکدار۔

ذَلِظُهُ (ض) ذَلِظًا: سینہ میں مار کر بنانا۔

ذَلِظٌ فِي سِنِيْرِهِ: تیز گزرتا۔

ذَالِظُهُ: مدافعت کرنا۔

إِنْدَلِظَ: المَاءُ: زور سے بہنے لگنا۔

ذَلَعُ (ف) ذَلْعًا وَأَذَلَعُ لِسَانَهُ: زبان

نکالنا۔

ذَلَعُ (ف ن) ذَلْعًا وَذَلُوْعًا وَأَذَلَعُ

وَأَذَلَعُ لِسَانَهُ: زبان کا منہ سے باہر نکلنا۔

إِنْدَلَعُ البَطْنُ: پیٹ کا بڑا اور ڈھیلا ہونا.....

السُّنْفُ: تلوار کا میان سے باہر نکلنا۔

السُّدَلِيْعُ وَالذُّدُوْعُ: کشادہ راستہ۔ نرم

راستہ۔ ج ذَلَانِعٌ. وَالذُّدُوْعُ مِنَ التُّوْقِ:

اُونٹوں سے آگے رہنے والی اونٹنی۔

السُّدَالُوعُ وَالذُّدُوْلَعَةُ: سمندر کی پیٹی کی ایک

قسم۔

السُّدَالُوعُ: تازو وقت میں پرورش یافتہ۔ اسم

(الدُّلَاْعَةُ): اور یہ مولدین کے نزدیک ہے۔

السُّدَلْعَسُ وَالذُّدَلْعَسُ وَالذُّدَلْعَسُ

وَالذُّدَلْعَسُ وَالذُّدَلْعَسُ: مِنَ الْجِمَالِ

: سدھا ہوا اونٹ۔

الدُّدَلْعَانُ: چپکنے والی مٹی۔ (نعت عامیہ ہے)

ذَلْفٌ (ض) ذَلْفًا وَذَلْفًا وَذَلْفًا وَذَلْفًا

وَذَلْفَانًا: بیڑی پڑے ہوئے کی طرح آہستہ

آہستہ چلنا..... الناقۃُ بِخَمَلِهَا: آدمی کا بوجھ لے کر اٹھنا..... الجیشُ: لشکر کا آگے بڑھنا۔ صفت (ذالف) ج ذلف و ذلف۔
 أذلف: لشد القول: جتنی سے گفتگو کرنا..... ہ الکبیر: آہستہ چلانا۔
 تذلف: ایہ: چلنا اور نزدیک ہونا۔
 إنذلف: علیہ: گرتا۔
 الذالف: تیر جو نشانہ کے قریب گئے اور پھر وہاں سے علیحدہ ہو جائے۔
 الذلوف: تیز اڑنے والا گدھ۔ مونث اونٹ۔ بہت پھلدار درخت خرما۔ ج ذلف۔
 الذلفین: ایک قسم کا تھن والا سمندری جانور جس کی تھنی چونچ کی شکل کی ہوتی ہے اور جس کے متعلق مشہور ہے کہ ڈوبنے والے کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر بچاتی ہے۔ معرب ہے۔ عربی میں اس کا مرادف الذخس ہے۔
 طریفق (ذلفق و ذلفاق): روشن و نمایاں راستہ۔
 ذلق (ن) ذلقوا و ذلق: السیف من عندہ: تلوار کو میان سے سونتا۔ ذلق الباب: دروازہ کو زور سے کھولنا..... علیہم المغازة: لوث و الناء..... البعیر شقیقتہ: اونٹ کا جھاگ نکالنا۔ (..... ذلقا و ذلوقا، السیف) : تلوار کا میان سے نکل پڑنا..... الخیل: گھوڑوں کا پیر پڑے لھنا۔ صفت (ذلق): واحد (ذالقی و ذلوق)
 إنذلق: الشی: اپنی جگہ سے نکل پڑنا۔
 الخیل: گھوڑوں کا بہت تیزی کے ساتھ نکل پڑنا..... السیف: تلوار کا میان سے نکل پڑنا۔
 تذلق: السیل علیہ: بہت تیزی کے ساتھ سیلاب کا بہہ پڑنا۔
 استذلق: السیف: میان سے نکالنا۔
 الذلق: ایک جانور کا نام ہے جو لمبی سے چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا رنگ زرد ہوتا ہے پیٹ اور گردن میں کچھ سفیدی ہوتی ہے۔ سیف (ذلسق

و ذالقی و ذلوق): میان سے آسانی سے نکلنے والی تلوار۔ غازیة ذلوق: سخت لوث۔ ناقۃ ذلوق: بڑھاپے کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے دانتوں والی اونٹنی۔ ج ذلق۔
 الذلقم: بڑھاپے کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے دانتوں والی اونٹنی (میم زائد ہے)۔
 ذلک (ن) ذلکنا: الشی: رگڑنا۔ ملائم کرنا..... ہ الذھر: تجربہ کار بنانا..... وجہہ بالطیب: خوشبو لگانا..... الزجل حقه: ظلم کرنا۔ غریبنا: قرض خواہ کو نالنا..... ذلوقنا: الشفس: ڈوبنے کے قریب ہونا۔ صفت (ذالک)
 ذالک مذالکة: الغریب: قرض خواہ کو نالنا۔
 تذالک: نہانے کے وقت بدن ملانا۔ بالطیب: خوشبو لگانا۔
 الذلک: نرمی۔ کہا جاتا ہے "فی زکبہ ذلک" اس کے زانو میں نرمی ہے۔ غروب آفتاب کا وقت۔
 الذلوک: لگانے کی خوشبو یاد دوا وغیرہ۔
 الذلیک: وہ شخص جس کو زمانہ نے تجربہ کار بنا دیا ہو۔ ج ذلک: خاک جس کو ہوا اڑا دے۔ ایک قسم کی نباتات۔
 الذلوق: بڑا معاملہ۔ ج ذالیک۔
 المذلک والمذلکة: ملنے کا اوزار۔
 المذلوک: منع۔ البعیر المذلوک: نرم گھٹنے والا اونٹ۔ وہ شخص جو سفر کی وجہ سے تجربہ کار ہو گیا ہو۔
 المذلک: وہ شخص جو اپنے آپ کو گھٹیا باتوں سے بلند نہ رکھے۔
 ذلم (س) ذلما و اذلام: اذلیما: پھکدار سیاہ ہونا۔ صفت (اذلم): مؤنث ذلما۔
 ذلمت الشفة: ہونٹ کا ڈھیلا ہونا اور لگانا۔
 اذلام اللیل: رات کا بہت تاریک ہونا۔
 اذلم شقنة: ہونٹ کا ڈھیلا کرنا۔
 الذلم: ہاتھی۔
 الذلام: سیاہی۔ سیاہ۔ کہا جاتا ہے "شی

ذلام" کالی چیز۔
 الذلاء: قمری مہینہ کی تیسویں رات۔
 الاذلم: من الاثوان: کالا۔ کالا سانپ۔ لمبا کالا۔
 الذیلم: مصیبت۔ حوش کے پاس چوٹیوں اور چبچریوں کے جمع ہونے کی جگہ۔ لشکر۔ نر تیر۔ قضا پرندہ کی ایک قسم۔ جماعت۔ دشمن۔
 اذلمس اذلمسا: اللیل: سخت تاریک ہونا۔
 الذلمس والذلامس: سخت تاریکی۔ مصیبت۔
 الذلمس: مصیبت۔
 تذلمص: راسہ: سر کا گنجا ہونا۔
 الذلمص والذلامص: پھکدار۔ اس ذلمص: گنجا سر۔
 طریق (ذلق): نرم راستہ۔ ج ذلایق۔
 ذله (س) ذلها و ذلها و ذلوقها و تذلة: غم و عشق وغیرہ سے سرگشتہ ہونا۔ حیران ہونا۔
 ذلة (ف) ذلها: غنہ: تلی پانا۔
 ذلہہ: حیران کرنا۔ بد ہوش کرنا۔
 الذیالہ والذالہة: غم و عشق وغیرہ کی وجہ سے سرگشتہ و دیوانہ۔ کہا جاتا ہے "ذھب ذمہ (ذلہا)" اس کا خون رائیگاں گیا۔
 المذلہ: عشق وغیرہ کی وجہ سے بے خود و دل رفت۔
 ذلہت: الزجل: جلد آگے بڑھنا۔
 الذلہت والذلاہت والذلہات: پیش قدمی کرنے والا۔ دلیر۔ شیر۔
 اذلہم: اللیل: رات کا سخت تاریک ہونا۔
 الظلام: گھٹا نوپ اندھیر ہونا.....
 الزجل: بوڑھا ہونا۔
 الذلہم: تاریک۔ بھیریا۔ نرسنگ خوار پرندہ۔ عشق کی وجہ سے عقل رقت و بد ہوش۔
 الذلہم والذلہمس: دلیر۔ بہادر مرد۔
 شیر۔ الذلہمس: بہت تاریک رات۔
 ذلا (ن) ذلوا و ذلی: الذلو: ڈول کونٹیں

میں لٹکانا۔ ٹکالنے کے لئے کھینچنا۔ حاسختہ: حاجت طلب کرنا۔ ذلّاه: نرمی و مہربانی کا سلوک کرنا۔ کہا جاتا ہے "ذَلُّوْثُ بِفُلَانٍ اِلَيْكَ": میں نے تیرے پاس فلاں کو سفارش بنایا۔ "ذَلّاهُ بَعُوْزُ": اس نے اس کو دھوکے میں ڈالا۔ ذَلُّوْثُ بِالذَّلُوْءِ "ذول سے پائی کھینچتا۔ ذَلّاهُ بِالْحَبْلِ مِنَ السَّطْحِ: اس نے اس کو رسی کے ذریعہ چھت سے لٹکایا۔

ذَلّاهُ: نرمی و مہربانی کا سلوک کرنا۔ اَذَلّٰى اِذْلَاءً: کنوئیں میں ڈول لٹکانا۔ فیه: کسی کے بارے میں بری بات کہنا۔ بِقَرَابَتِهِ: قرابت سے وسیلہ پکڑنا۔

بِحُجَّتِهِ: دلیل بیان کرنا۔ اِلَيْهِ بِمَالٍ: دینا۔ اَذَلّٰى اِلٰى فُلَانٍ: کسی کے پاس جھگڑا لے جانا۔

تَدَلّٰى: الثَّمَرُ مِنَ الشَّجَرِ: پھل کا لٹکانا۔ مِنَ الخَيْلِ: گھوڑے سے اترنا۔ اِذْلُوْا لِيْ اِذْلِيْئًا: جلدی کرنا۔

الذَّلُوْ: مص - ڈول (مؤنث ہے بھی مذکر استعمال کرتے ہیں) ذِ ذَلّاهُ وَاذَلّٰى وَاذَلّٰى وَاذَلّٰى وَاذَلّٰى: کہا جاتا ہے "اَلَّذِيْ ذَلُّوْكَ فِى الْبِدَالِءِ" یعنی تم بھی کوشش کرو۔ الذَّلُوْ: ایک برج آسمانی کا نام۔ اُوْنُثُ کا داغ۔ مصیبت۔

الذَّلَاةُ: ذُوْلُجِ ذَلّٰى وَاذَلّٰى۔ الذَّلٰى: ذِ ذَلّاهُ: سیاہ انگور۔

الذَّلِيَّةُ: رہت۔ زمین جس کو ڈول یا رہت سے سینچا جائے۔ انگور کی تیل۔ ذِ ذَلّوا ل: (یہ مولد ہیں)

ذَلّٰى (س): ذَلّٰى: تخمیر ہونا۔ تَدَلّٰى: پہ: قریب ہونا۔ لَهُ: فروتنی کرنا۔

ذَمُّ (ن): ذَمًا: الشَّيْءُ بِالصَّبْحِ او الْبَقْرِ او نَحْوِهِمَا: کسی چیز پر ملانا۔ الْاَرْضُ: ہموار کرنا۔ التَّبْرِئُوْعُ جُفْعُوْعًا: جنگلی چوہے کا اپنے سوراخ کو مٹی وغیرہ سے پات کر برابر کرنا۔ الرَّجُلُ: پوری طرح سے

عذاب دینا۔ مارنا یا سر پکٹنا۔ الْقَوْمُ: تیزہ مار کر ہلاک کرنا۔ الرَّجُلُ: تیز چلنا۔ ذَمُّ: (ن ض س) ذَمَامَةٌ: تحقیر و بد صورت ہونا۔ صفت (ذمیم) ذِ ذَمَامُ: مؤنث ذَمِيْمٌ و ذَمِيْمَةٌ ذِ ذَمَائِمٌ و ذَمَائِمٌ۔

ذَمَّمُ: الشَّيْءُ: کسی چیز پر طلاء کرنا۔ اَذَمُّ: الرَّجُلُ: بری بات کرنا یا بد صورت بچہ والا ہونا۔

الذَّمُّ وَاذَمُّ وَاذَمُّ وَاذَمُّ: ہر وہ چیز جو بطور طلاء کے استعمال کی جائے۔

الذَّمُّ: بمعنی خون۔ الذَّمَّةُ: چوٹی۔ جوں جھنگلی۔ بکریوں کا بازہ۔ بلی۔ تحقیر و پست قدمرد۔

الذَّمَّةُ: روشن۔ طریقہ۔ گرایا۔ ذِ ذَمَمُ: الذَّمِيْمُوْمُ وَاذَمُّوْمَةٌ: وسیع بیابان۔ ذِ ذَمَائِمٌ: الذَّمِيْمُوْمَةُ: بمعنی دوام و پختگی۔

الذَّمْمَةُ: ایک قسم کی دنداندار کڑی جس سے زمین کو ہموار کرتے ہیں۔

الذَّمْمُوْمُ: خون کی مانند سرخ۔ بہت موٹا۔ چربی دار۔

ذَمَّتْ (ك): ذَمَامَةٌ: نرم اخلاق ہونا۔ ذَمِيْتُ (س): ذَمَامًا: الْمَكَانُ وَغَيْرُهُ: نرم ہونا۔

ذَمَّتْ الْمَضْبَعُ: نرم بنانا۔ الْمَكَانُ: نرم کرنا۔ لَهُ الْحَدِيْثُ: ذکر کرنا۔

الذَّمْتُ وَاذَمْتُ وَاذَمْتُ وَاذَمْتُ: نرم رہتی جگہ۔ ذِ ذَمَامَاتُ اور اسی سے ہے "زَجَلْ ذَمِيْتُ الْاِخْلَاقِي" نرم اخلاق والا مرد۔ اَرْضُ (ذَمْمَاءُ): نرم زمین۔

الذَّمُوْمَةُ: نرم خوئی۔ الذَّمَائِمُ: نرم چیزیں۔ واحد (ذَمِيْمَةٌ) الْاَذْمُوْمُ: بھوبھل میں روٹی پکانے کی جگہ۔

ذَمَجٌ (ن): ذَمُوْجًا وَاذَمَجٌ وَاذَمَجٌ: فِى الشَّيْءِ: مضبوط گڑ جانا۔ ذَمَجٌ الْاَمْرُ: درست ہونا۔ ذَمَجَهُ: فِى الشَّيْءِ: داخل کرنا۔

ذَمَجَتْ (س): ذَمَجًا: غلٹا کرنا۔

ذَمَجَتْ (س): ذَمَجًا: غلٹا کرنا۔ ذَمَجَتْ (ن): ذَمَسًا وَاذَمَسًا: پویشیدہ کرنا۔ بَيْنَهُمْ: اصلاح کرنا۔

ذَمَسَتْ (س): ذَمَسًا: گندگی سے

ذَمَجَتْ (س): ذَمَجًا: غلٹا کرنا۔

ذَمَجَتْ (س): ذَمَجًا: غلٹا کرنا۔

ذَمَجَتْ (س): ذَمَجًا: غلٹا کرنا۔ اَذَمَجَ: الشَّيْءُ فِى الثَّوْبِ: کسی چیز کو پکڑے میں لپیٹنا۔ السَّحْبَلُ: رسی کو اچھی طرح بٹنا۔ الْكَلَامُ: بہتر ترتیب دینا۔ الْقَوْمُ: ذُوبًا کرنا۔

تَدَمَجَ: الْقَوْمُ عَلَيْهِ: باہم مدد کرنا۔ اکٹھا جمع ہونا۔

تَدَمَجَ: فِى قِيَابِهِ: کپڑوں میں لپٹنا۔ الذَّمَائِمُ: ذِ ذَمَائِمُ: کہا جاتا ہے "لَيْلُ الذَّمَائِمِ" تاریک رات۔

الذَّمَجُ: دوست۔ نظیر۔ الذَّمَجَةُ: طریقہ۔ کہا جاتا ہے "عَلَى تِلْكَ الذَّمَجَةِ" اس طریقہ پر۔

الذَّمَجُ وَاذَمَجُ: بہت مضبوط۔ سیدھا۔ المَدْمَجُ: مفع۔ تیر کی پتھر۔

الذَّمَجَاةُ: پگڑی۔ الذَّمَجُ (ف): ذَمَجًا: بلند ہونا۔ رَاسَهُ: سر توڑنا۔ لَيْلُ الذَّمَائِمِ: معتدل رات۔

ذَمَرٌ (ن): ذَمُوْرًا وَاذَمَرًا وَاذَمَرًا: ہلاک ہونا۔ ذَمُوْرًا عَلَيْهِمْ: بغیر اجازت کے آنا یا بے ارادے سے اچانک آنا۔

ذَمَرٌ: اللَّيْلُ: جاگتے رہنا۔ ذَمَرَهُمْ وَاذَمَرَهُمْ عَلَيْهِمْ: ہلاک کرنا۔

تَدَمَّرَ: مَلِكٌ شَامٌ: ایک بڑے شہر کا نام۔ ایک قلعہ کا نام۔

الذَّمَمَرِيُّ: کیمند۔ جنگلی چوہا جس کے ناخن ٹوٹ گئے ہوں اور گوشت سخت ہو۔ کہا جاتا ہے "مَالِئِي الذَّمَمَرِيُّ" گھر میں کوئی نہیں۔

ذَمَسَ (ن ض): ذَمَسًا وَاذَمَسًا: الظَّلَامُ او اللَّيْلُ: سخت سیاہ ہونا۔ صفت (ذَمَائِمُ)۔ الْمَوْضِعُ: مٹا۔

ذَمَسَهُ (ن): ذَمَسًا وَاذَمَسَهُ: ڈھانچا۔ ذَمَسَ: پویشیدہ کرنا۔ بَيْنَهُمْ: اصلاح کرنا۔

ذَمَسَتْ (س): ذَمَسًا: گندگی سے

ذَمَسَتْ (س): ذَمَسًا: گندگی سے

ذَمَسَتْ (س): ذَمَسًا: گندگی سے

ذَمَسَتْ (س): ذَمَسًا: گندگی سے

ذَمَسَتْ (س): ذَمَسًا: گندگی سے

دماغ کے اوپر کی باریک جھلی۔
 دَمَق (ن) دَمُوقًا عَلَيَّهٖ: بغیر اجازت کے داخل ہونا۔
 دَمَق (ن ض) دَمَقًا الشئ: چراتا۔
 فَاة: دانت توڑنا۔ (..... و دَمَق و اَدَمَق)
 الشئ فی الشئ: داخل کرنا۔
 اِنْدَمَق عَلَيَّهٖ: بغیر اجازت کے داخل ہونا۔ لگنا۔
 الدَّمَق: برف کے ساتھ سخت ہوا۔
 الدامق: قا۔ (..... والدَّمُوق) من الرجال: خراب آدمی جس سے کوئی قطع نہ ہو۔
 الدمیق: بوسرے میں داخل کیا ہوا۔
 المندمق: داخل ہونے کی جگہ۔
 الیدمقس والیدمقس: سفید ریشم۔ دیا۔
 ثَوْبٌ (مدمقس): ریشم کا بنا ہوا کپڑا۔
 دَمَك (ن) دَمُوكًا: الاذنِب: خرگوش کا تیز دوڑنا..... الشئ: چمکدار و نرم ہونا۔
 (..... دَمَكًا الشئ: پینا..... الرشاء: رسی بٹنا۔
 الذامیكة: مصیبت۔ ج ذوامیک۔
 الدمؤک: تیز گزرنے والا۔ کہا جاتا ہے
 "رَحَى دَمُوك" تیز پینے والی چکی۔ ج ذمک۔
 المدمک: بیلن۔
 المدماک: چکی انٹوں یا پتھروں کا ردا۔ ج مذامیک۔
 الدمکمک: بہت مضبوط۔ رَحَى دَمُوك: تیز پینے والی چکی۔
 دَمَل (ن) دَمَلًا: الدمل: پھوڑا اچھا کرنا۔
 (دمل و ذومل) بَيْنَهُم: اصلاح کرنا۔
 دَمِل (س) دَمَلًا وَاَدَمَل وَاِنْدَمَل: الجوخ: زخم اچھا ہونا۔
 دَامَلَهُ: نرمی سے سلوک کرنا۔
 تَدَمَل: المنکان: کھا دینا۔
 تَدَامَل: القوم: باہم صلح کرنا۔
 الدمل: مصل۔ نرمی۔ کہا جاتا ہے "عَامَلَهُ بِالْدَمَل" اس نے اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ

ہونا۔ پچھلے حصہ میں باریک اور اگلے حصہ میں موٹی ابروؤں والا ہونا۔ صفت (أدمص): مَوْتٌ دَمَصًا ج دَمَص۔
 دَمَعَت (ف) دَمَعًا وِدَمِعَت (س) دَمَعًا وِدَمَعَانًا وِدَمُوعًا: العین: آنسو بہنا۔ دَمِع الأبناء: بھر جانا۔
 أَدَمَع: الأبناء: لبالب بھر دینا۔
 اِسْتَدَمَع: آنسو بہانا۔
 الدمغ: آنسو۔ واحد (دَمَغَة) ج دَمُوع وَاَدَمَع: دَمَغَة الكرم: شراب۔
 اِمْرَأَةٌ (دَمِغَة و دَمِيع): جلدی رونے والی۔ بہت آنسوؤں والی عورت۔ ج دَمِيع و دَمَاع: جلدی رونے والا۔ بہت آنسوؤں والا مرد۔ ج دَمَعَاء و دَمِيع: الدامع: قا۔ مکان دَمِع: نمناک جگہ۔ شَجَّة ذامیعة: خون بہانے والا زخم۔
 الدمغاع: پانی جو درخت کے کانٹے سے نکلے۔ آنکھ کا پانی جو بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے نکلے۔
 الدمغاع و الدمغوع: بہت آنسو والا۔
 الدمغاع: نمناک جگہ۔ یَوْمَ دَمَاع: خفیف بارش کا دن۔
 قَدَح (دَمَعَان): لبالب بھرا ہوا پیالہ۔
 المدمع: آنسو بہنے کی جگہ۔ ج مدماع۔
 الدمغاع: رخسارہ پر آنسو کا نشان۔
 دَمَغَة (ف ن) دَمَغًا: دماغ تک زخمی کرنا۔ صفت مشعولی (دَمِيع و دَمُوع)
 ه الشمس: دماغ کو تکلیف پہنچانا۔
 ه: مغلوب کرنا..... الحق الساطل: نیست و نابود کرنا۔ باطل کرنا۔ تاپید کرنا۔
 دَمَغ: الاطعمَة بالدمیم: چربی ڈالنا۔
 أَدَمَغَه: اَلی کَذَا جَمَحًا جَمَانًا: حاجت مند بنانا۔
 أَدَمَغ الطعماء: لگنا..... الشئ: داخل کرنا۔
 شَجَّة (ذامیعة): دماغ تک پہنچنے والا زخم۔
 الدمغاع: سر کا بھیجا۔ ج دَمِغَة. أم الدماغ:

آلودہ ہونا۔
 دَامَسَ مَدَامَسَةً الشئ: چھپانا۔ پوشیدہ کرنا۔
 أَدَمَسَ: اللیل: تاریک ہونا..... الشئ: پوشیدہ کرنا۔
 تَدَمَسَ: آلودہ ہونا۔ تھمنا۔
 اِنْدَمَسَ: تہ خانہ میں داخل ہونا۔
 الدمفس: بمس۔ صورت جو دور سے دکھائی دے۔ کہا جاتا ہے "زَايْتُ دَمَسًا" میں نے صورت دیکھی۔
 الدمفس: من الامور: بڑے بڑے امور۔
 کہا جاتا ہے "جَاءَ نَابِئًا مَوْرُ دَمَسٍ" وہ ہمارے پاس بڑے بڑے امور لایا۔
 الدمفس و الدمیس: ہر وہ چیز جو ڈھک دی جائے۔
 الدماس: ہر وہ چیز جو تم کو چھپالے۔
 الدمؤس: شکاری کے چھپنے کی جگہ۔ ج ذوامیس۔
 الیدمفاس و الیدمفاس: تہ خانہ۔ غسل خانہ۔ قبر۔ ج ذوامیس و دَمَائِس۔
 لَيْلٌ (أَدَمُوس): تاریک رات۔
 الیدمفامیس: گہری جگہیں جہاں روشنی نہ پہنچے۔
 الدمستق: رومیوں کے کمانڈر کا لقب۔ ج دَمَائِق۔
 دَمَشَق: الامس: جلدی سے پورا کرنا.....
 الشئ: آراستہ کرنا۔
 تَدَمَشَق: دمشق میں آنا۔
 دَمَشَق: الیدین: دونوں ہاتھوں سے جلدی کام کرنے والا۔
 دَمَشَق و دَمِشَق: شام کا دار الخلافہ۔ نسبت کے لئے دَمَشَقِي ج دَمَائِقَة۔
 المدمشق: نیم پختہ بھنا ہوا گوشت۔
 دَمَص (ن) دَمَصًا: فی الشئ: جلدی کرنا۔ دَمَصَت الكلبَة بجزوها: ناقص پھر گرا دینا۔
 دَمِص (س) دَمَصًا: سر میں کم بال والا

تَدَنِّي: تھوڑا تھوڑا قریب ہونا۔ کہا جاتا ہے
"بَعِيدٌ يَتَدَنِّي خَيْرٌ مِنْ قَرِيبٍ يَتَبَعُدُ" دور کا
آدمی جو تھوڑا قریب ہو اس قریب سے بہتر
ہے جو دور ہو۔

تَدَانِي تَدَانِيًا: القوم: ایک دوسرے کے
قریب ہونا۔ تَدَانَتْ اِبْلَةٌ: کم ہونا۔

اِدْنِي: قریب ہونا۔

اِسْتَدْنَاهُ: قریب ہونے کو کہنا۔

التَدَانَاةُ: مص۔ قرابت۔ کہا جاتا ہے
"بَيْنَهُمَا تَدَانَاةٌ" ان دونوں کے درمیان
قرابت و رشتہ داری ہے۔

الاذْنِي: ذنئی: کا اسم تفضیل۔ ج اذنان
و اذنون: مؤنث ذنیا۔ ج ذنئی. الاذنون:
نسب کے لحاظ سے قرابتی رشتہ دار لوگ۔

الذُنْيَا: موجودہ زندگی۔ ج ذنئی: نسبت کے
لئے (ذُنْيُوئِي وَ ذُنْيَاوِي وَ ذُنْيِي) اور کہا جاتا
ہے "هُوَ فِي ذُنْيَا ذَانِيَةٌ" وہ آسودہ زندگی
میں ہے جو چاہتا ہے حاصل کر لیتا ہے۔ و
هُوَ ابْنُ عَمِّ دَنِي وَ دُنْيَا وَ دُنْيَا وَ دُنْيَةٌ
وہ بچا کا بیٹا ہے جو نسب میں لاحق ہے۔

المُدْنِي: مدنع۔ من الرجال: کمزور۔
نَاقَةٌ (مُدْنِي وَ مُدْنِيَةٌ): وضع حمل کے قریب
والی اونٹنی۔

ذَهْنَةٌ (ف) ذَهْنًا: دفع کرنا۔ بنا تا۔

ذَهْدَمَ: البناء: ڈھانا۔

تَدَهَّدَمَ: ویران ہونا۔ منہدم ہونا۔

ذَهْدَةٌ وَ ذَهْدِي: الحجر: لڑھکانا۔

تَدَهَّدَى وَ تَدَهَّدِي: اللڑھکانا۔

الذَهْدُوهُ وَ الذَهْدُوَّةُ وَ الذَهْدِيَّةُ: گہریلا کی
گولی۔

الذَهْدَاءُ وَ السَدَهْدَاءُ: چھوٹے چھوٹے
اونٹ۔ کہا جاتا ہے "مَسَا ذَرِيَّتِي اَتَى الذَهْدَاءِ
هُوَ" میں نہیں جانتا وہ کون آدمی ہے۔

ذَهْرٌ (ف) ذَهْرًا: القوم وَ بالقوم: امر
مکروۃ: قوم پر امرنا پسندیدہ واقع ہونا۔

الذَهْرُ: زمانہ طویل۔ لہجی مدت۔ ذَهْرٌ
الانسان: انسان کے زندگی گزارنے کا

الذَنْفُ: مرض لازم والا۔ ج اذناف: مؤنث
ذَنْفَةٌ ج ذَنْفَاتُ.

الذَنْفِيسُ: بے وقوف عورت۔

الذَنْفِيسُ: بدخو۔

ذَنْفَشٌ: دزدیدہ نگاہ سے دیکھنا۔

الذَنْفِصَةُ: ولی عورت۔

ذَنْقٌ (ن ض) ذَنْقًا: ہار ایک امور نکالنے کا
حریص ہونا۔ صفت (ذَنْقِي) ج ذَنْقِي.

ذَنْقٌ: المَرْجَةُ: غم یا مرض سے کمزور ہونا۔
لِلْمَوْتِ: قریب المرگ ہونا۔ العَيْنُ: آنکھ
کا اندر دھنس جانا۔ الشَّيْءُ: پوری طرح
سے لینا۔ الشَّمْسُ: آفتاب کا ڈوبنے

کے قریب ہونا۔ السَّرِجَلُ: مرنا۔ اَلْيَسِيَّةُ
النَّظَرُ: لگا تار دیکھنا۔

السَّنْفَةُ: گہوں میں ایک قسم کا دانہ جس کو
اگر ایا مٹنا کہتے ہیں۔

السَّنْفِقُ: قاف۔ بے وقوف۔ چور
(.....) والذَنْقِ: درہم کے چھٹے حصہ کا ایک
سکہ۔ ج ذَوَانِقٌ وَ ذَوَانِيقٌ: (کلمۃ فارسیہ)
الذَنْقَرُ: شورہ۔

ذَنْفَسٌ: دزدیدہ نگاہ سے دیکھنا۔ بَيْنَهُمْ: فساد
و النان۔

ذَنْكَسٌ: فِي نَيْبِهِ: گھر میں چھپ کے بیٹھنا
اور لوگوں کی ضروریات کے لئے نہ نکھنا۔

ذَنْبَانِيذُنُو ذُنُوًا وَ ذَنْبَاوَةٌ: لِلشَّيْءِ وَمِنْهُ وَالْيَدُ:
کسی چیز کے قریب ہونا۔ صفت (ذَان) ج
ذَنَاة.

ذَنْبِي يَذْنِي ذَنَا وَ ذَنْبَانِيَةٌ: گھٹیا ہونا۔ روی
ہونا۔ صفت (ذَنْبِي) ج اذنبیاء)

ذَنْبَاةٌ تَذْنِيَةٌ: قریب کرنا۔ ذَنْبِي فِي الْأُمُورِ:
ہر چھوٹے بڑے امر کے پیچھے پڑنا۔

ذَانِي مُذَانَاةً: القَيْدُ: بیزی کو تنگ کرنا۔
بَيْنَ الْأُمُورِ: قریب قریب کرنا۔

..... الْأُمُورِ: نزدیک ہونا۔

أَذْنِي إِذْنَاءً: تنگ زندگی بسر کرنا۔ قریب
ہونا۔ قریب کرنا۔ کسی کے قریب کرنا۔

السِّيَرُ: پردہ لگانا۔

گھومنا۔

السِّدْنَانِ: گنگناہٹ۔ پرانا ہونے کی وجہ سے
سیاہ شدہ پودا۔

ذَنْوُ الدِّينَارِ تَدْنِيًا: دینار بنانا۔ ذَنْوُ الوَجْهِ:
دینار کی طرح روشن و چمکدار ہونا۔

ذَنْوٌ: بہت دینار والا ہونا۔

الدِّينَارُ: سونے کا ایک پرانا سکہ۔ ج ذنایبیر۔

ذَنْسٌ (س) ذَنْسًا وَ ذَنْسَانَةٌ: عَرْضُهُ
أَوْ ثَوْبُهُ أَوْ خُلْفُهُ: عیب دار ہونا۔ میلا ہونا۔

صفت (ذَنْس) ج اذناس و مذانیس۔
ذَنْسَةٌ: میلا کرنا اور کہا جاتا ہے "ذَنْسَهُ سُوءٌ
خُلْفِهِ" اس کی بد خلقی نے اس کو عیب دار کر

دیا۔

تَدَنْسٌ: میلا ہونا۔

الذَنْسُ: مص۔ میل کچیل۔ ج اذناس۔
السَّمْدَانِيسُ: عیوب۔ گندی جگہیں۔ کہا جاتا

ہے "هُوَ يَتَصَوَّنُ مِنَ الْأَذْنَانِيسِ
وَالْمَذَانِيسِ" وہ عیوب سے بچتا ہے۔
ذَنْعٌ (ف) ذَنْعًا وَ ذَنْعَانَةٌ: کمینہ و بے خبر
ہونا۔ صفت (ذَانِعٌ وَ ذَنْعٌ وَ ذَنْعٌ وَ ذَنْعٌ
وَ ذَنْعَةٌ)

ذَنْعٌ: ذلیل ہونا۔ کمینہ ہونا۔ جھوکا ہونا۔
خوابش مند ہونا۔

أَذْنَعٌ: صلحاء کے طریقہ کی پیروی کرنا۔
رَجُلٌ (ذَنْعَةٌ): بے خبر و بے فیض آدمی۔ کہا

جاتا ہے "هُوَ مِنْ ذَنْعِ النَّاسِ" وہ کینے لوگوں
میں سے ہے۔

ذَنْفٌ (س) ذَنْفًا: المَرِيضُ: بیماری کا بڑھ
جانا اور قریب المرگ ہونا۔

الشَّمْسُ: آفتاب کا زرد ہونا اور ڈوبنے کے
قریب ہونا۔ ہ المَرَضُ: بیماری کا تیز ہو

جانا۔ الشَّيْءُ: قریب کرنا۔
الذَنْفُ: مص۔ مرض دائمی۔ ہمیشہ کا بیمار۔ کہا

جاتا ہے "رَجُلٌ ذَنْفٌ وَ امْرَأَةٌ ذَنْفٌ وَ هُمُ
ذَنْفٌ" اور کہا جاتا ہے "كَذَابَتِ الشَّمْسُ
تَكُونُ ذَنْفًا": آفتاب ڈوبنے کے قریب

ہے۔

<p>الذہم: مخلوق۔ کہا جاتا ہے "أَيُّ الذَّهِمِّ هُوَ" وہ اللہ کی کوئی مخلوق ہے۔ الذَّهْمَةُ: سیاہی۔</p>	<p>ذَهَقَ (ف) ذَهَقًا. الكاس: پیالہ بھرتا۔ المَاءُ: پانی کو تیزی سے گرا تا۔ الشئ: توڑنا۔ کاشا۔ ہ مارنا۔</p>	<p>زمانہ۔ دہر عصر کا مرادف ہے۔ مصیبت۔ غایت۔ عادت۔ کہا جاتا ہے "مَا إِذَاكَ بَدَهْرِي" یہ میری عادت نہیں "وَمَا دَهْرِي بِكَذَا" یہ میری غایت و انتہا نہیں۔ غلب۔ ج</p>
<p>الذَّهْمَاءُ: الادھم: کاموٹ۔ ہانڈی۔ لوگوں کی جماعت۔ قمری مہینہ کی انیسویں رات۔ ایک چوڑی قسم کی گھاس جس سے چمڑے کو داغت دیتے ہیں۔ خَلْبِنَقَةٌ (ذَهْمَاءُ وَمُذَهَّمَةٌ): سرسبز باغ جس کی سرسبزی مائل سیاہی ہو۔</p>	<p>أَذْهَقَ. الكاس: پیالہ بھرتا۔ جلدی کراتا۔ إِذْهَقْتُ. السَّجَّازَةُ: مضبوطی سے ایک دوسرے سے جڑ جانا۔ الذَّهْقُ: بھگت۔</p>	<p>بگڈا" یہ میری غایت و انتہا نہیں۔ غلب۔ ج أَذْهَرُ وَذَهْوَرُ: کہا جاتا ہے "لَا آتِيهِ زَهْرُ الدَّهْرَيْنِ" میں اس کے پاس کبھی نہیں آؤں گا۔</p>
<p>الذَّهْمَاءُ وَالذَّهْمَاءُ وَأُمُّ الذَّهِيمِ: مصیبت۔ الذَّهِيمُ: بے وقوف۔ ذَهْمَجٌ. الشَّيْخُ: بیزری پڑے ہوئے کی طرح چلنا..... الخَبِيرُ: اپنی طرف سے زیادہ کرتا۔</p>	<p>الذَّهْقُ: بھگت۔ الذَّهْقُ: بھگت۔ الذَّهْقُ: بھگت۔ الذَّهْقُ: بھگت۔</p>	<p>الذَّهْرِيُّ: بددین جو عالم کے قدیم وغیر مخلوق ہونے کا قائل ہے۔ الذَّهْرِيَّةُ: ایک فرقتہ جو عالم کے قدیم ہونے کا قائل تھا۔</p>
<p>ذَهْمَجٌ. الشَّيْخُ: بیزری پڑے ہوئے کی طرح چلنا..... الخَبِيرُ: اپنی طرف سے زیادہ کرتا۔ الذَّهْمَجُ الذَّهْمَجُ: بڑے ذیل ڈول کی چیز۔ دو کو بان والا اونٹ۔</p>	<p>ذَهَقَ (ف) ذَهَقًا. الكاس: پیالہ بھرتا۔ المَاءُ: پانی کو تیزی سے گرا تا۔ الشئ: توڑنا۔ کاشا۔ ہ مارنا۔</p>	<p>الذَّهْرِيُّ: وہ شخص جس کی عمر طویل ہو اور جس پر ایک زمانہ گزر چکا ہو۔ ذَهْرٌ (ذَاهِرٌ وَذَهِيٌّ): سخت و طویل زمانہ۔ الذَّهَارُ وَالْمُدَاهِرَةُ: غیر معین مدت کے لئے معاملہ کرتا۔</p>
<p>ذَهْنٌ (ن) ذَهْنًا وَذَهْنَةً. الراس: سر پر تیل ملنا..... الشئ: تیل لگانا۔ (ذَهْنٌ ذَهْنًا وَذَاهِنَةٌ مُذَاهِنَةٌ): فریب دینا۔ باطن کے خلاف ظاہر کرتا۔ وَأَذْهَنَ عَلَيْهِ: رحم کرتا۔ کہا جاتا ہے "مَا أَذْهَنَتْ إِلَّا عَلَى نَفْسِكَ" تم نے صرف اپنے نفس پر رحم کیا۔</p>	<p>ذَهَقَ (ف) ذَهَقًا. الكاس: پیالہ بھرتا۔ المَاءُ: پانی کو تیزی سے گرا تا۔ الشئ: توڑنا۔ کاشا۔ ہ مارنا۔</p>	<p>الذَّهَارِيُّ: زمانہ گزشتہ کی ابتداء (اس کے لئے واحد نہیں) مصیبتیں۔ زمانہ کے حوادث۔ کہا جاتا ہے "ذَهْوَرُ ذَهَارِيٍّ" طویل زمانے و "كَانَ ذَلِكَ فِي ذَهْوَرِ الذَّهَارِيِّ": یہ زمانہ قدیم میں تھا۔ قَوْمٌ (مَذْهُورُونَ): آفت رسیدہ لوگ۔</p>
<p>ذَهْنٌ (ن) ذَهْنًا وَذَهْنَةً. الراس: سر پر تیل ملنا..... الشئ: تیل لگانا۔ (ذَهْنٌ ذَهْنًا وَذَاهِنَةٌ مُذَاهِنَةٌ): فریب دینا۔ باطن کے خلاف ظاہر کرتا۔ وَأَذْهَنَ عَلَيْهِ: رحم کرتا۔ کہا جاتا ہے "مَا أَذْهَنَتْ إِلَّا عَلَى نَفْسِكَ" تم نے صرف اپنے نفس پر رحم کیا۔</p>	<p>ذَهَقَ (ف) ذَهَقًا. الكاس: پیالہ بھرتا۔ المَاءُ: پانی کو تیزی سے گرا تا۔ الشئ: توڑنا۔ کاشا۔ ہ مارنا۔</p>	<p>ذَهْنٌ (س) ذَهْنًا. المکان: نرم ہونا کہ جس میں نہ صرف ریت ہی ہونے لگی۔ صفت (أَذْهَسَ مَوْتٌ ذَهْسًا ج ذَهْسٌ). الادھس: سرخ مائل سیاہی۔ الذَّهْسَاءُ: بڑے سرین والی عورت۔</p>
<p>ذَهْنٌ (ن) ذَهْنًا وَذَهْنَةً. الراس: سر پر تیل ملنا..... الشئ: تیل لگانا۔ (ذَهْنٌ ذَهْنًا وَذَاهِنَةٌ مُذَاهِنَةٌ): فریب دینا۔ باطن کے خلاف ظاہر کرتا۔ وَأَذْهَنَ عَلَيْهِ: رحم کرتا۔ کہا جاتا ہے "مَا أَذْهَنَتْ إِلَّا عَلَى نَفْسِكَ" تم نے صرف اپنے نفس پر رحم کیا۔</p>	<p>ذَهَقَ (ف) ذَهَقًا. الكاس: پیالہ بھرتا۔ المَاءُ: پانی کو تیزی سے گرا تا۔ الشئ: توڑنا۔ کاشا۔ ہ مارنا۔</p>	<p>ذَهْنٌ (س) ذَهْنًا. المکان: نرم ہونا کہ جس میں نہ صرف ریت ہی ہونے لگی۔ صفت (أَذْهَسَ مَوْتٌ ذَهْسًا ج ذَهْسٌ). الادھس: سرخ مائل سیاہی۔ الذَّهْسَاءُ: بڑے سرین والی عورت۔</p>
<p>ذَهْنٌ (ن) ذَهْنًا وَذَهْنَةً. الراس: سر پر تیل ملنا..... الشئ: تیل لگانا۔ (ذَهْنٌ ذَهْنًا وَذَاهِنَةٌ مُذَاهِنَةٌ): فریب دینا۔ باطن کے خلاف ظاہر کرتا۔ وَأَذْهَنَ عَلَيْهِ: رحم کرتا۔ کہا جاتا ہے "مَا أَذْهَنَتْ إِلَّا عَلَى نَفْسِكَ" تم نے صرف اپنے نفس پر رحم کیا۔</p>	<p>ذَهَقَ (ف) ذَهَقًا. الكاس: پیالہ بھرتا۔ المَاءُ: پانی کو تیزی سے گرا تا۔ الشئ: توڑنا۔ کاشا۔ ہ مارنا۔</p>	<p>ذَهْنٌ (س) ذَهْنًا. المکان: نرم ہونا کہ جس میں نہ صرف ریت ہی ہونے لگی۔ صفت (أَذْهَسَ مَوْتٌ ذَهْسًا ج ذَهْسٌ). الادھس: سرخ مائل سیاہی۔ الذَّهْسَاءُ: بڑے سرین والی عورت۔</p>
<p>ذَهْنٌ (ن) ذَهْنًا وَذَهْنَةً. الراس: سر پر تیل ملنا..... الشئ: تیل لگانا۔ (ذَهْنٌ ذَهْنًا وَذَاهِنَةٌ مُذَاهِنَةٌ): فریب دینا۔ باطن کے خلاف ظاہر کرتا۔ وَأَذْهَنَ عَلَيْهِ: رحم کرتا۔ کہا جاتا ہے "مَا أَذْهَنَتْ إِلَّا عَلَى نَفْسِكَ" تم نے صرف اپنے نفس پر رحم کیا۔</p>	<p>ذَهَقَ (ف) ذَهَقًا. الكاس: پیالہ بھرتا۔ المَاءُ: پانی کو تیزی سے گرا تا۔ الشئ: توڑنا۔ کاشا۔ ہ مارنا۔</p>	<p>ذَهْنٌ (س) ذَهْنًا. المکان: نرم ہونا کہ جس میں نہ صرف ریت ہی ہونے لگی۔ صفت (أَذْهَسَ مَوْتٌ ذَهْسًا ج ذَهْسٌ). الادھس: سرخ مائل سیاہی۔ الذَّهْسَاءُ: بڑے سرین والی عورت۔</p>
<p>ذَهْنٌ (ن) ذَهْنًا وَذَهْنَةً. الراس: سر پر تیل ملنا..... الشئ: تیل لگانا۔ (ذَهْنٌ ذَهْنًا وَذَاهِنَةٌ مُذَاهِنَةٌ): فریب دینا۔ باطن کے خلاف ظاہر کرتا۔ وَأَذْهَنَ عَلَيْهِ: رحم کرتا۔ کہا جاتا ہے "مَا أَذْهَنَتْ إِلَّا عَلَى نَفْسِكَ" تم نے صرف اپنے نفس پر رحم کیا۔</p>	<p>ذَهَقَ (ف) ذَهَقًا. الكاس: پیالہ بھرتا۔ المَاءُ: پانی کو تیزی سے گرا تا۔ الشئ: توڑنا۔ کاشا۔ ہ مارنا۔</p>	<p>ذَهْنٌ (س) ذَهْنًا. المکان: نرم ہونا کہ جس میں نہ صرف ریت ہی ہونے لگی۔ صفت (أَذْهَسَ مَوْتٌ ذَهْسًا ج ذَهْسٌ). الادھس: سرخ مائل سیاہی۔ الذَّهْسَاءُ: بڑے سرین والی عورت۔</p>

الذَّهَانُ: تیل لگانے والا۔ تیل بیچنے والا۔
الذَّهَانُ: سرخ چمڑا۔ وہ روغن جس کو دیوار
وغیرہ پر لگایا جائے۔ پھسلن کی جگہ۔
الذَّهَيْنُ: کم دودھ والی اونٹنی۔ تیل لگا ہوا۔
کمزور۔

السُّدْنُ: پانی کے جمع ہونے کی جگہ۔ تیل کی
شیشی۔ سبھاہن۔

ذَهْوَرُ: الشُّيْ: گڑھے میں پھینکنا۔ کہا جاتا
ہے "ذَهْوَرُ الْكَلَامِ" وہ کلام کو ایک دوسرے
کے پیچھے لایا۔ "ذَهْوَرُ الْقَم" اس نے لقمہ
کو گول کیا اور نگل گیا۔ ذَهْوَرُ الْخَائِطُ: اس
نے دیوار دکھا دے کر گرا دی۔

تَذَهْوَرُ: گڑھے میں گرنا۔ تَذَهْوَرُ اللَّيْلُ:
گزر جانا۔

ذَهْيٌ (ف) ذَهْيًا وَذَهْيٌ: فَلَانًا: چالاکی کی
طرف نسبت کرنا۔ عیب لگانا۔ مرتبہ گھٹانا۔
آفت و بلا پہنچانا۔

ذَهْيٌ (س) ذَهْيًا وَذَهَانَةً وَذَهَاءً: چالاک
ہونا۔ چالاکی سے کام کرنا۔ صفت (ذَوَاهِ) ج
ذَهَاءٌ وَ(ذَوِ) ج ذَاهُونٌ۔

ذَاهِيَةٌ ج ذَوَاهِ اس میں تاء مبالغہ کی ہے۔ تم
کہتے ہو "زَجَلٌ ذَاهِيَةٌ وَأَمْرَأَةٌ ذَاهِيَةٌ"
چالاک مرد چالاک عورت۔

تَذَهَّى: چالاک ہونا۔

تَذَاهِيٌّ: یہ تکلف چالاک بننا۔ الذَّهَاءُ:
زیرکی۔ ہوشیاری۔ مکرو جیلد۔

الذَّاهِيَّةُ: بری بات۔ مصیبت۔ بڑا معاملہ۔
ج ذَوَاهِ۔ ذَاهِيَةٌ ذَهْيَاءُ: سخت مصیبت۔
وَذَوَاهِيُ التَّعْمُرِ: زمانہ کے حوادث۔
الذَّهْيُ: بظلمت۔ تیز فہم۔ ج أَذْهِيَاءُ وَذَهْوَاءُ۔
الذَّوْ: جھگڑ۔

ذَاءٌ بِنَاءِ دَاءٍ وَذَوَةٌ أَوْ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ وَإِذَاءٌ وَإِذَاةٌ:
بیارہ ہونا۔ صفت (دَاءٍ وَمُذِيَّتِي) وَأَذْوَاهُ: مرض
لااق ہونا۔

الذَّاءُ: بیماری۔ ج أَذْوَاهُ۔ ذَاءٌ السُّدْنُ:
بھوک۔ ذَاءُ السُّعْلَبِ: ایک بیماری جس سے
سر کے بال گر جاتے ہیں اور اس کو الحاصہ

بھی کہتے ہیں اور اگر کھال بھی گرنے لگے تو
اس کو "ذَاءُ الْحَيَّةِ" کہتے ہیں۔ ذَاءُ الْفَيْلِ
فیل پاکی بیماری۔ کہتے ہیں بہ ذَاءُ الظَّبْيِ
الذَّبِّي: بیمار۔

ذَاخٌ (ن) ذَوُّجًا: خدمت کرنا۔

الذَّاجِحَةُ: لشکر کے خدام۔ چھوٹی چھوٹی
حاجتیں۔ کہا جاتا ہے "مَاتَتْ كَثُفٌ حَاجِحَةٌ"
وَلَا ذَاخَةَ" میں نے چھوٹی بڑی کوئی حاجت
نہیں چھوڑی اور یا "ذاجحة" اس قول میں
حاجت کا تابع ہے۔

الذُّوْجُ: رئیس لشکر جو کہ کسی ملک کا سربراہ
ہو۔

ذَاخٌ (ن) ذَوُّخًا. البَطْنُ: پیٹ کا پھولنا اور
لُكْنَا الشَّجَرَةَ: بڑا ہونا۔ صفت (ذَائِحَةٌ) ج
ذَوَائِحُ۔

ذَوُّخٌ. الصَّالُ: بکھیرنا۔ البَطْنُ: پیٹ کا
پھولنا اور لُكْنَا۔

تَذَوُّخٌ وَإِنذَاخٌ. البَطْنُ: پیٹ کا پھولنا اور
لُكْنَا. إِنذَاخُ الشُّيْ: کسی چیز کا وسعت کے
ساتھ پھیلنا۔

الذَّوْحَةُ: بڑا پھیلا ہوا درخت۔ بڑا
ساہبان۔ ج ذَوُّوحٌ. جَجَّ ذَوُّوحٌ. الذَّوْحُ: بڑا
مکان۔

الذَّاحُ: بچوں کا نقش کھلونا۔ ریشم کا بنا ہوا
کنگن۔

الذَّاحَةُ: دنیا۔
الذَّوْحُ: بہت بلند۔

ذَاخٌ (ن) ذَوُّخًا: ذلیل ہونا۔ فروقی
کرنا۔ البلاذ: غالب ہونا۔

ذَوُّخٌ. البلاذُ: (وَدَيْخُهَا: شہروں میں چکر
لگانا)۔ غالب ہونا۔ الرَّجُلُ: کسی کو ذلیل
کرنا۔ السُّوْجُوعُ زَانَهُ: درد کا سر کو چکرا
دینا۔

أَذَاخَةٌ إِذَاخَةٌ: ذلیل کرنا۔

الذَّوْحَةُ: سر کا چکر (کلمہ عامیہ ہے) ج ذَوَارٌ
وَهَذَامٌ ہے)

لَيْلٌ (ذَائِحٌ): تاریک رات۔

السُّوْخَلَةُ وَالذَّوْخَلَةُ: بھجور کے پتوں کی
زنبیل۔

ذَاخِيٌّ ذَاخِيٌّ ذَاخِيٌّ وَذَوْدٌ وَذِيْنُو أَدَاذٍ
إِذَاخَةُ الطَّعَامِ: کھانے میں کیڑا پڑنا۔ صفت
(مَلْدُوْدٌ)

الذَّوْدَةُ: کیڑا ج ذَوْدُو ذَوْدِيْدَانٌ.
ذَوْدَةٌ. القَوِيْرُ: ریشم کا کیڑا۔

الذَّوَادُ: چھوٹے کیڑے۔ تیز رو مرد۔
الذَّوَيْدُ: دود کی تفسیر (چھوٹا کیڑا)

الذَّوَادَةُ: جھولا۔ ج الذَّوَادِيٌّ.
الذَّيْدَاءُ: تیز دوڑ۔

السُّوَادَارُ وَالذَّوَيْدَارُ: کاتب۔ شئی۔
(جدید)

ذَارٌ (ن) ذَوْرًا ذَوْرَانِيًّا: گھومنا۔ چکر
کھانا۔ السُّهْرُ: اُلْتَنَا پلٹنا۔ بال شئی
وَعَلَيْهِ وَحَوْلَهُ: گرد گھومنا۔

ذَيْرٌ: بہ چکرانا۔ سر کا چکر لاق ہونا۔
ذَوْرَةٌ: گول بنانا۔ ہ وہ بہ گھمانا۔

ذَاوْرَةٌ مُذَاوْرَةٌ وَذَوَارًا: کسی کے ساتھ
گھومنا۔ عَلَيِ الْأَمْرِ: کسی کام کو انجام
دینا۔ الْأَمُوْرُ: کام کو انجام دینے کے لئے
غور کرنا۔

إِذَا ذَارَ إِذَارَةً. الشُّيْ: گھومنا۔ ہ وہ بہ گھمانا۔
الشُّيْ: لیتا۔ الْأَمْرُ: احاطہ کرنا۔

..... عَلَيْهِ: لازم کرنے کا ارادہ کرنا۔
..... عَنْ حَقِيْقَةٍ: حق کو چھوڑ دینے کی خواہش
کرنا۔

أَذِيْرٌ: بہ چکرانا۔ سر کا چکر لاق ہونا۔
تَذَوْرٌ: گول ہونا۔

تَذَيْرٌ. التُّفَعَةُ: کسی جگہ کو مکان بنانا۔
إِسْتَدَارَ إِسْتِدَارَةً: گھومنا۔ الشُّيْ: گول
ہونا۔ الشُّيْ: بہ گھمانا۔ کہا جاتا ہے

"إِسْتَدَارَ بِمَا فِي قَلْبِي" جو کچھ میرے دل
میں تھا اس نے اسے معلوم کر لیا۔

الذَّارُ: گھر۔ مکان۔ رہنے کی جگہ۔ ج ذَوْرٌ
وَذِيَارٌ أذُوْرٌ وَأَذُوْرٌ وَذِيَارَةٌ وَأَذُوَارٌ
وَذَوْرَاتٌ وَذِيَارَاتٌ وَذَوْرَانٌ وَذِيْرَانٌ:

(کلمہ مؤنث ہے بھی مذکر استعمال کرتے ہیں۔) الذار: شہر قبیلہ۔ کہا جاتا ہے "مَرَّتْ بِسَادَارِ بْنِ فُلَانٍ" یعنی ہم بنو فلان کے قبیلہ سے گزرے۔ سال یا زمانہ۔ ذَارُ الْقُرَآنِ: جنت۔ الذاران: دنیا و آخرت۔ ذَارُ الْحَرْبِ: وہ مقام جہاں غیر الہی قانون رائج ہو۔

الذازة: اترنے کی جگہ۔ قبیلہ۔ پہاڑوں کے درمیان وسیع زمین۔ حلقہ۔ چاند کا ہالہ۔ رخ ذازات و ذور۔

(..... وَالذَّيْرَةُ وَالذَّوْرَةُ) مِنَ الزَّمَلِ: گول ریتیلی جگہ۔ و ذازات العرب: عرب کے شہروں کے مشہور مقامات جو ایک سو دس سے زائد ہیں۔

الذازي: عطر فروش (دارین کی جانب منسوب ہے جو بحرین میں ایک بندرگاہ ہے اور جہاں ہندوستان سے مشک آتی تھی۔ ملاح جو پتوار کا نمبیاں ہو۔ چوپائے و مویشی والا۔ کہا جاتا ہے "مَسَافِي الْمَكَانِ (ذازي) أَوْ ذَوْرِي أَوْ ذَيْتَارِ أَوْ ذَوْرِي" یعنی کوئی نہیں۔ الذوری: ایک قسم کی چڑیا۔

الذازية: ہمیشہ گھر میں رہنے والا (تا مبالغہ کے لئے ہے۔)

الذور: مص۔ حرکت۔ گھوم۔ چکر۔ رخ آذوار دَفْعَةٌ عِنْدَ الْأَطْبَاءِ: بخار کی باری۔ عِنْدَ الْمَوْسِيْقِيِّينَ: دو یا زائد شعروں کا قطعہ۔

عِلْمُ الْأَذْوَارِ: فن موسیقی۔ الذوزة: ذار: کا اسم مرہ۔ الذوار والذوار: سر کا چکر۔

الذوار والذواری: بہت پھرنے والا۔ کہا جاتا ہے "الذَّخْرُ ذَوَارٌ وَذَوَارِي بِأَلْسَانِ النَّاسِ" زمانہ انسان کے ساتھ لٹنے پلٹنے والا ہے۔ یعنی طرح طرح کے حوادث سے دو چار کرتا ہے۔

ذَوَارُ الشَّمْسِ: سورج بکھی۔

الذوار: بیت کا گول تودہ۔ منزل۔

الذوازة: پرکار۔ اوپر کے ہونٹ کا گڑھا۔ الذوازة والذوازة: مِنَ الرَّاسِ: سر کا گول حصہ۔ ذوازة البطن: بکری کا اوچھ۔ الذوازة الكبيرة یا العظيمة: اس کا قطر کر کے قطر کے برابر ہو۔

الذوازة الصغيرة: جس کا قطر کر کے قطر سے تھوڑا ہو۔

ذائرستان مُتَعَامِدَتَانِ: برابری والے دو دائرے۔ جس کے عموداً تقاطع لفظ ہوں۔

ذاليرة السَّمْتِ الاغْبِيَاةِ: وہ جس میں زمین کے دو قطب سورج کی مسافت برابری پر ہواں وجہ سے زمین پر روشنی نصف علاقہ پر پرتی ہو اور باقی نصف پر اندھیرا ہوتا ہے اس وقت رات دن کے گھٹنے برابر ہوتے ہیں اور یہ اعتدال سال میں دو دفعہ ہوتا ہے ایک دفعہ

۲۲/۲۱ اذار (مارچ) اس کو اعتدال ربیعی بولتے ہیں اور دوسری دفعہ ۲۳/۲۲ ایلول یعنی ستمبر اس کو اعتدال خریفی بولتے ہیں۔

"ذَايِرَةٌ سَمَتْ الْفَلَاكِيَّةُ": وہ دائرہ جس میں سورج خط استواء کا فی قاصطے پر ہوتا ہے اور چند دن کے لئے ظاہر ہوتا ہے گویا کہ وہ اپنی جگہ پر قائم ہے اور یہ سال میں دو دفعہ ہوتا ہے ایک دفعہ ۲۱ حزیران یعنی جون۔ اس کا نام انقلاب صیفی ہے۔ دوسری دفعہ ۲۱ کانون اول یعنی ۲۱ دسمبر اس کو انقلاب شتوی بولتے ہیں۔

الذوازة: جو کسی چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہو۔ حلقہ انسان کے پیشانی کے پاس کی بھنوری۔ گھوڑے کے بدن کی بھنوری۔ ٹھکت۔ مصیبت..... عِنْدَ الْمُهَنْدِسِيْنَ: سطح مستوی جس کو ایک گول خط احاطہ کئے ہوئے ہو اور اس گول خط کا نام محیط ہے۔

مَرَكَزُ الذَّايِرَةِ: دائرہ کے بیچ کا نقطہ۔ قَطْرُ الذَّايِرَةِ: وہ خط مستقیم جو مرکز سے گزرتا ہوا دائرہ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر دے۔ ذَوَائِرُ: کہا جاتا ہے "ذَاوَرَتْ عَلَيْهِمُ الذَّوَائِرُ" یعنی ان پر مصائب پڑے۔

الذوازة: جو کسی چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہو۔ حلقہ انسان کے پیشانی کے پاس کی بھنوری۔ گھوڑے کے بدن کی بھنوری۔ ٹھکت۔ مصیبت..... عِنْدَ الْمُهَنْدِسِيْنَ: سطح مستوی جس کو ایک گول خط احاطہ کئے ہوئے ہو اور اس گول خط کا نام محیط ہے۔

مَرَكَزُ الذَّايِرَةِ: دائرہ کے بیچ کا نقطہ۔ قَطْرُ الذَّايِرَةِ: وہ خط مستقیم جو مرکز سے گزرتا ہوا دائرہ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر دے۔ ذَوَائِرُ: کہا جاتا ہے "ذَاوَرَتْ عَلَيْهِمُ الذَّوَائِرُ" یعنی ان پر مصائب پڑے۔

الذوازة: جو کسی چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہو۔ حلقہ انسان کے پیشانی کے پاس کی بھنوری۔ گھوڑے کے بدن کی بھنوری۔ ٹھکت۔ مصیبت..... عِنْدَ الْمُهَنْدِسِيْنَ: سطح مستوی جس کو ایک گول خط احاطہ کئے ہوئے ہو اور اس گول خط کا نام محیط ہے۔

الذير: راہوں کے رہنے کی جگہ۔ ذَايِرَةٌ وَذَوِيْرَةٌ وَأَذْيَارٌ.

الذيراني والذيار: دیر والا یا دیر کار رہنے والا۔

الإذارة: ادارہ کا اسم و مصدر۔

مَذَارُ الشَّيْءِ: جس پر کوئی چیز چکر کھائے..... الأمر: کسی کام کا دار و مدار۔

المذارة: ذول کی ایک قسم۔ المذير: منجز۔ منتظم۔ گورنر۔

ذَوْنُ الْقَانُونِ وَنَحْوُهُ: ستار سارنگی وغیرہ کے تار کستا۔ کلمہ فارسیہ اس کا مرادف عربی میں بعض و بظہ ہے۔

ذَاسٌ (ن) ذَوَسًا وَدِيَاَسًا وَدِيَاَسَةُ الشَّيْءِ: پاؤں سے ملنا..... فَلَائِنَا: کسی کو ذلیل کرنا..... السيف: تلوار کو قبضل کرنا۔

(..... وَإِذَا سَمِعَ الزَّرْعَ: گاہنا۔ ذَاوَسٌ: الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الْقِتَالِ: جنگ میں ایک دوسرے کو پاؤں سے روندنا۔

إِنْدَاسٌ: پاؤں سے روندنا۔ الذينة: گھٹنا جنگل۔ ذِذْيَسٌ وَدِيَسٌ: الذواسة والذوينة: جماعت۔ الذواس: بہادر۔ شیر۔

الذواسة: ناگ۔ المذاس: جوت۔

الذواس والذواس: کھائی کرنے کا اوزار۔ صتمیل کرنے کا آلہ۔ ذِذَاوِسٌ وَذِذَاوِسٌ.

الذواسة: جولاہے کے تانے کی لکڑی۔ پکلی یا راہٹ چلانے کے لئے لوہے کا ٹکڑا۔ سائیکل کا پیڈل۔

ذَوَشْتٌ (س) ذَوْشًا عَيْنُهُ: بیماری سے آنکھ خراب ہونا۔ صفت (أَذْوَشٌ) مؤنث دو شاء ذِذْوَشٌ.

ذَوْعَةٌ: ذِذْوَعٌ. ذَاغٌ (ن) ذِذْوَاغًا: القوم: سب کو مرض لاحق ہونا..... الطعام: سستا ہونا۔

ذَاغُهُ الْحَرُّ: گرمی کا کسی چیز کو بگاڑ دینا۔

خراب کرتا۔

الدوغة: بے وقوفی۔ سردی۔

ذاف (ن) ذوقاً واذاف. الذوآء ونحوه:

ماتا۔ مخلوط کرتا۔ پانی میں کھلانا اور گاڑھا

ہونے کے لئے حرکت دینا۔ صفت (مذوف

ومذوف و ذائب)

الذوفان: کا بوس۔

الدوفص: پیاز۔

ذاق يذوق ذوقاً وذوقاً وذووقه و

ذووقه: دہلا ہونا۔ بے وقوف ہونا۔ صفت

(ذائق)..... الطعام: چکھنا۔

أذاق. القوم به: احاطہ کرتا۔

إنذاق إندياقاً. بطنه: پیٹ کا پھولنا۔

السذوق والسذوقانية: فساد۔ تباہی۔ بے

ذوقی۔

الذوق: بے وقوفی۔

الذوقعة: فقیری و ذلت۔

ذاک (ن) ذوئکاً ومذاکاً. السقوم:

مضطرب ہونا۔ حینس عینس میں پڑنا۔ بیمار

ہونا..... الشئی: کوٹنا۔ رگڑنا۔ پینا.....

الصمراة: جماع کرنا..... الطيب: سونگھنا۔

تذاوک. السقوم: لڑائی جھگڑے میں باہم

جنگ ہونا۔

الذوكة والذوكة: جھگڑا۔ برائی۔

الجدوک والمذاک: خوشبو پینے کا پتھریا

وہ پتھر جس پر خوشبو پیسی جائے۔

ذال (ن) ذولة. الزمان: ایک حال سے

دوسرے حال کی طرف پلٹنا۔ کہا جاتا ہے

"ذالذ لہ الذولة" دولت اس کے لئے

الذ پلٹ گئی..... الرجل فی مشبه: باوجود

چھوٹے چھوٹے قدم رکھنے کے تیز چلنا.....

بطنه: پیٹ کا لٹنا..... السوب: کپڑے کا

بوسیدہ ہونا۔ پرانا ہونا (..... ذالة و ذولا):

مشہور ہونا۔

ذاول مذاولة. الله الايام بين الناس: اللہ

تعالیٰ کا زمانے کو لوگوں کے درمیان لٹنا پلٹنا

کہ کبھی ایک جماعت کے لئے ہو بھی دوسری

کے لئے..... الماشی بين قدميه: بھی ایک

قدم پر کھڑا ہونا اور کبھی دوسرے پر۔

أذال إذالة. الشی: باری باری ایک کے بعد

دوسرے کو دینا..... اللہ بنی فلان من

عدوهم" غلبہ دلانا۔ فتح مند کرانا..... اللہ

زیندا من عمرو: حکومت منتقل کرنا۔

تذوالله. الأیدی: ہاتھوں ہاتھ لینا۔ باری

باری لینا اور اسی سے محاورہ ہے "تذاولوا

الشی بینہم" انہوں نے چیز کو باری باری

لیا۔

إنذال. بطنه: لنگ کر زمین تک پہنچنا۔

..... مافی بطنه: خارج ہونا..... الشی:

لٹنا۔

..... السقوم: ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل

ہونا۔

استذال. الايام: زمانہ تو اپنے موافق کر لینا۔

الذولة: محس (..... والذولة): ایسی چیز جو

کبھی کسی کے لئے اور کبھی کسی کے لئے ہو اسی

وجہ سے مال اور غلبہ پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔

والذولة عند آرباب السياسة: بادشاہ و

وزراء۔ حکومت۔ گورنمنٹ۔ ریاست۔ ج

ذول و ذول اور کہا جاتا ہے "کناث لنا

عليهم الذولة" ہم کو ان پر غلبہ حاصل ہوا۔

"والذهور ذول" زمانہ کو قرارتیں ایک حالت

پر نہیں رہتا۔

الذالة: شہرت۔ ج ذال.

الذولة: مصیبت۔ ج ذولات.

الإذالة: غلبہ۔ کہا جاتا ہے "ذوالیک" یعنی

کے بعد دیگرے۔ مطلب یہ ہے کہ اے

فلان کام کو یکے بعد دیگرے کر اور اس سے

مراد تاکید ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے "فعلنا

ذالک ذوالیک" ہم نے اس کو باری باری

کیا۔

ذام يذوم ويذام ذوماً وذواماً وذيمومة:

بیش رہنا۔ ثابت رہنا۔

..... الشی: ٹھہرنا۔ گھومنا..... الذلو: بھر جانا

"ذمت تذوم" یعنی ماضی کسور العین اور

مضارع مضموم العین نادر ہے۔ "فأذام"

افعال ناقصہ میں سے ہے۔ جیسے "لا یخبری"

الاضلاخ ماذام فلان خاسماً" یعنی اس

وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک فلان

فخض حاکم ہے (..... ذیمما) السماء: لگا تار

برسنا۔

ذیم بہ وأذیم بہ: سر چکرانا۔

ذومت تذویمما. الشمس: وسط آسمان

میں گھومنا..... الخمر شاربها: سر چکرا

دینا..... عینه: حلقہ میں پھرتا..... الشی: تر

کرنا..... العمامة: سر کے گرد لپیٹنا.....

الطائر: فضا میں چکر لگانا..... الزعفران فی

الماء: رگڑ کر گھسنا..... القدر: ٹھنڈے پانی کا

چھینٹا دے کر جوش ٹھنڈا کرنا..... بالذوامة:

لٹو سے کھیلنا (..... وذیمت) السماء: لگا تار

برسنا۔

ذوام. علی الأخر: بیٹھتی کرنا..... الشی:

مہلت سے کرنا۔ بیٹھتی طلب کرنا۔

أذام أذامة. الشی: ہمیشہ کرنا..... الأخر:

بیٹھتی کرنا۔ أذامت السماء: لگا تار برسنا۔

الذلو: بھرتا..... القدر: ٹھنڈے پانی کا چھیننا

دے کر جوش ٹھنڈا کرنا۔

تذوم: انتظار کرنا۔

استذام استذامة. الشی: مہلت سے کرنا۔

بیٹھتی طلب کرنا..... الطائر: فضا میں چکر

لگانا..... غریمہ: نرمی کرنا۔

الذائم: قائمہ ذائم: ٹھہرا ہوا پانی۔

الذاماء: سمندر۔

الذوم: محس۔ ہمیشہ کھجور کی مانند ایک

درخت۔ بڑے بڑے درخت۔

الذوام: سر کا چکر۔

الذومان: پرندے کا منڈلانا۔

الذیمة: لگا تار بارش جس میں چمک و گرج نہ


ہو۔ ج ذیم وذیموم کہا جاتا ہے "مطر تهم

السماء بدیمية وبدیم" آسمان نے ان پر

لگا تار بارش کی۔

الذاما: خطر خج جیسا ایک کھلوتا۔

مثال کے طور پر بولتے ہیں جو صرف ایک ہی بار ہو۔ الدینک: بڑا مہربان۔ موسم بہار۔ ارض (مذاککة ومذاککة ومذیککة): بہت مرغوں والی زمین۔	تَدَيِّنُ: قرض لینا۔	قرض لینا۔
دینگس۔ السرجل فی بیئہ: لوگوں کی ضرورت کے لئے ہاہرنہ لگنا۔	تَدَايِنُ الْقَوْمِ: ایک دوسرے سے قرض لینا۔	الذینونہ: قضا۔ حساب۔
ذائہ یندینسہ ذینا: قرض دینا۔ صفت قاعلی (ذائین) و صفت مفعولی۔ (مذیون)	إِذَا نِ إِذْيَانَا وَاسْتَدَانَا: قرض لینا۔	دینا مو: ڈینمو (DYNAMO) بجلی پیدا کرنے والا آلہ۔
..... السرجل: قرض لینا۔ صفت (ذائین).....	إِذَا نِ الشی: ادھار خریدنا۔	السذیان: قاضی۔ غلبہ والا۔ حاکم۔ حساب لینے والا۔ بدلہ دینے والا۔
فلاننا: بدلہ لینا۔	الذین: قرض۔	الذینونہ: ہائیڈروکلورک ایسڈ (H.C.L) (ڈائنامائیٹ)
ذائہ (ض) ذیننا: مالک ہونا۔ غلام بنانا۔ ناپسندیدہ بات پر اُکسانا۔ ذلیل کرنا۔ حکم دینا۔ خدمت کرنا۔ بھلائی کرنا۔	کھا جاتا ہے "قضى ذینہ" یعنی وہ مر گیا۔	السذیان: غلام۔ بدلہ دیا ہوا۔ وہ شخص جس سے حساب لیا گیا ہو۔ مؤنث سذینہ کہا جاتا ہے "الفلان سذین ومذینہ" فلاں کے لئے لوٹھی غلام ہے۔
ذان السرجل: عزیز ہونا۔ ذلیل ہونا۔ فرماں برداری کرنا۔ نافرمانی کرنا۔	ج ذیون واذین۔	السذیان: قرضدار۔
ذان (ض) ذینسا و ذینانہ و تَدَيِّنُ. بالملة الاسلامیہ: دین اختیار کرنا۔	السذین: مصل۔ حساب۔ اسی سے ہے "توموم السذین" ملکیت۔ قدرت۔ حکم۔ مذہب۔ ملت۔ حالت۔ عادت۔ سیرت۔ تدبیر۔	السذیان: بہت قرض لینے یا دینے والا۔ (مذکر مؤنث) ج مذایین۔
ذینہ: اپنے دین کے تابع بنانا۔ ذینہ الشی: مالک بنانا۔	سذیان کہا جاتا ہے "قوم ذین" نافرمانی برداری کرنے والے لوگ۔	السذینامیہ: ارسطو کا فلسفہ جس مادی عناصر کا اعتراف نہ کرنا سوائے ان کے جن کا عملی مرکب جسموں کے پھیلاؤ اور ان کے خالص کو محدود کرے۔
ذینہ مذاینہ: فیصلہ کے لئے لے جانا۔ قرض کا معاملہ کرنا۔	السذین: دیندار۔ دین کو مضبوطی سے پکڑنے والا۔	ذینسا مؤنث: شدت قوت کی پیمائش کا اوزار یا آلہ۔
إِذَا نِ إِذَا نِ: قرض لینا..... ہ: قرض دینا۔	السذین: دیندار۔ تمام وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے تحت میں آئیں۔ ملت و مذہب۔ ج ذینانات۔	



ذ

ذ: السدال: نواں حرف بنیادی حروف میں سے۔

ذَا: یہ اسم اشارہ ہے قریب کے لئے۔ متشبیہ حالت رُفعی میں ذان اور حالت نصی و جری میں ذینسبج اولاء اور شاذ مطریقہ سے ذیسا استعمال کرتے ہیں اور اس پر ہاء تنبیہ داخل کر کے ہذا بولتے ہیں اور جب مَنْ یا مَا استفہامیہ کے بعد ذواذواغ ہو تو الذی کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے "مَاذَا فَعَلْتُ وَمَنْ ذَاہِی السداز" کیا ہے جو تم نے کیا۔ کون ہے جو گھر میں ہے اور ما کے ساتھ اسم استفہام ہوتا ہے۔ جیسے "لِمَا ذَا تَرَحُّنًا" تو نے ہم کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟

ذَاک: اسم اشارہ متوسط کے لئے اور ہاء: تنبیہ کے ساتھ ہذاک اور تصغیر کی صورت میں ذیاک اور متشبیہ حالت رُفعی میں ذایک: اور حالت نصی و جری ذینسبک اور جمع اولنک۔

ذایک: اسم اشارہ بعید کے لئے۔ متشبیہ ذایک: ج اولنک اور تصغیر ذیالک۔

ذَاب (ف) ذَابَا۔ الشئی: جمع کرنا..... الذَابِیۃ: جانور کو ہانکنا..... ہ: خوف دلانا۔ دھکانا۔ مذمت کرنا..... الفلام: لڑکے کی زلفیں بنانا۔ ذَابَسَہ السونُخ: ہر جانب سے آنا..... الرُجُلُ: سخت آواز نکالنا۔ تیز چلنا۔

ذَیْب: بھیڑیے سے گھبراتا۔ بکریوں میں بھیڑیے کا بڑنا۔

ذَیْب (س) ذَابَا وَ ذُؤَب (ک) ذَابِیۃ:

مکاری و خباثت میں بھیڑیے جیسا ہونا۔ بھیڑیے سے ڈرنا۔

اذَاب: بھیڑیے سے گھبراتا..... الارض: بھیڑیوں والی ہونا..... الغلام: لڑکے کی زلفیں بنانا۔ ذَابَسَہ: گھبراتا۔

تَذَاب: خباثت میں بھیڑیے جیسا ہونا..... الشئی: کسی چیز کو باری سے لینا۔

تَذَابَتْ وَ تَذَاہَتْ بِنْت الریخ عَلَیْہِہ کسی ادھر سے کبھی ادھر سے آنا۔ تَذَابَسَہ وَ تَذَاہَسَہ الریخ: ہر جانب سے چلنا..... ہ الجن: گھبراتا۔

تَذَاب وَ تَذَابَتْ لِلنَّاقۃ: اونٹنی کو دوسری کے بچے پر مہربان بنانے کے لئے بھیڑیے جیسا بن کر چھینا۔

اِسْتَذَاب اِسْتِذَابَا: بھیڑیے جیسا ہونا۔ الذاب: ہمس۔ نخس۔

الذئب: بھیڑیا۔ ج ذناب و اذؤب ذؤبان۔ ذاء الذئب: بھوک۔ ذؤبان العروب: عرب کے چوروں کے پھرا۔

الذئبۃ: مادہ بھیڑیا۔ ایک بیماری جو جانوروں کے گلے میں ہوتی ہے۔ کجاوہ یا زمین کے دونوں پہلوؤں کے درمیان کی کشادگی۔

الذئبان: اونٹ کی گردن اور ہونٹ کے بال۔ اون جو تراش لینے کے بعد باقی رہ جائے۔

السؤابۃ: پیشانی کے بال۔ گوار کا علاقہ۔ ذؤابۃ کھلی شئی: چوٹی اور اسی سے ہے

"هُوَ ذُؤَابِیۃ قَوْمِہ: وہ اپنی قوم کی ناک ہے۔ و"عَلُوْتُ ذُؤَابِیۃ الْجَبَلِ" میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ ذُؤَابِیۃ السرحل: کجاوہ کے آخر میں لگتی ہوئی کھال۔ ذُؤَابِیۃ النعل: جوتے کا تسمیح ذؤاب اور دھکی کے وقت بولتے ہیں "لَا قَتْلَنَ فِی ذُؤَابِیۃک۔"

أَرْض (مذَابِیۃ): بہت بھیڑیوں والی سر زمین۔

ذَوِر (س) ذَارَا: غضبناک ہونا..... غنہ: ڈرنا۔ گھبراتا۔ ناک چڑھانا۔ صفت (ذَابِر وَ ذَابِل)..... بال الشئی: کسی چیز کا عادی ہونا۔

(..... وَ ذَاہَ رَ عَلَیْہِہ دلیری کرنا۔

ذَوِیْرَت وَ ذَوِیْرَت مُمَدَاة رة. المرأة علی بعلہا: عورت کا شوہر کی نافرمانی کرنا۔

صفت (ذَانوَ وَ ذَوِیْر وَ ذَوِیْرَة وَ مُذَابِل) اذَارہ: غضبناک ہونا۔ جرأت دلانا۔ برا بھانتہ کرنا۔ اُکسانا..... ہ الی کُفًا: مجبور کرنا.....

ہ بضاجہ: درغلانا۔ ذَاَف (ف) ذَاَفَانَا: مرنا۔

ذَاَف عَلَی الایسر وَ ذَاَفہ (ف) ذَاَفَا وَ ذَاَفَا وَ ذَاَفہ: فوراً مار ڈالنا۔

اِسْتَذَاَف: دل کا کٹ جانا اور مرجانا۔ مَوْتُ (ذَوَاف): ناگہانی موت۔ مَسْم ذَوَاف: زہر قاتل۔

الذافان: موت..... والذیفان والذوفان والذیفان والذیفان: زہر قاتل۔

ذَال (ف) ذَالَا وَ ذَالَانَا: آہستہ آہستہ سے چلنا۔

تَذَبَّدَبَ: ہلنا۔ حرکت کرنا۔ الذَّبْدَبَةُ: مصل زبان۔ ہوا میں حرکت کرنے والی چیز۔ وہ چیز جو ہودج پر زینت کے لئے لٹکانی جائے۔ ج ذَبَاذِب۔ الذَّبَاذِبُ: کپڑے کے چھوڑ۔ کپڑے کے نچلے حصے۔ المُذَبَّبُ: متردد۔ متحیر۔ پس و پیش کرنے والا۔ ذَبَّرَ (ن ض) ذَبَّرًا: الِکْتَابَ: لکھنا۔ نقطے لگانا۔ بغیر کے ہونے تیز پڑھنا..... الشیءُ: جاننا اور اچھی طرح سمجھنا۔ ذَبَّرَ (ض) ذَبَّرًا وَ ذَبَارَةً: اچھی طرح دیکھنا۔ العَصْرُ: سمجھنا..... الشِعْرُ: شعر پڑھنا۔ ذَبَّرَ (س) ذَبَّرًا: عَلَیْهِ: غصناک ہونا۔ ذَبَّرَ: الِکْتَابَ: لکھنا۔ نقطے لگانا۔ بغیر کے ہونے تیز پڑھنا۔ الذَّبَرُ: مصل۔ کتاب ج ذَبَار۔ المِذْبَرُ: قلم۔ ذَبَّلَ وَ ذَبَّلَ (ن ک) ذُبُولًا وَ ذَبَلًا: النَّبَاتُ: نباتات کا پڑ مردہ ہونا۔ مرجھانا۔ الفرسُ: گھوڑے کا دہلا ہونا..... لسانہ أَوْ شَفْتُهُ: زبان یا ہونٹ کا خشک ہونا۔ کہا جاتا ہے "ذَبَّلْتَهُ ذُبُولًا" سے مصیبت لاحق ہوئی۔ أَذْبَلُ: النَّبَاتُ: پڑ مردہ کرنا..... الفرسُ: گھوڑے کو دہلا کرنا۔ تَذَبَّلَ فِي الْمَشْيِ: ناز و انداز سے چلنا۔ تَذَبَّلَتِ الْمَرْأَةُ: لاغر بدن ہوتے ہوئے مردوں کی چال چلنا۔ الذَّبَلُ: مصل۔ کھوے کی پیٹھ کی ہڈی۔ آغا ز جوانی۔ الذَّبَلُ: پیر گشدرگی۔ الذَّبَلَةُ: بیگنی۔ مرجھادینے والی گرم ہوا۔ الذَّبَلَةُ: بیاس سے ہونٹوں کا خشک ہونا۔ الذَّبَائِلُ: فا۔ باریک۔ دہلا۔ ج ذُبُل	کا بقیر۔ عطش (مُذَبَّبٌ): سخت پیاس۔ الذَّبَابُ وَ الْجَذْبُ: اپنی قوم کی بہت حمایت کرنے والا۔ الذَّبَانُ: بیاس سے مرجھایا ہوا۔ الجذْبَةُ: مورچھل۔ چوری۔ ج مِذْبَات وَ مِذَابٌ اور اسی سے ہے "أَذْنَابُهَا مَذَابُهَا" یعنی جانوروں کی دم ان کے لئے مورچھل ہے۔ أَرْضٌ ذُبُونَةٌ وَ مَذْبُونَةٌ: بہت کھیوں والی زمین۔ زاکب (مُذَبَّبٌ): تنہا جلد باز سوار۔ ذَبَحَهُ (ف) ذَبَحًا وَ ذَبَاخًا: پھاڑنا۔ گلا کائنا۔ ذبح کرنا۔ گلا گھونٹنا..... السِّدْنُ: مکے میں سوراخ کرنا۔ ذَبَحَ الْقَوْمَ: ذبح کرنے میں مبالغہ کرنا۔ إذْبَحَ: مذبح بنانا۔ تَذَابَحُوا: ایک دوسرے کو ذبح کرنا۔ الذَّبْحُ: جو ذبح کیا جائے۔ مقتول۔ الذَّبْحُ وَ السَّدْبْحُ: ایک قسم کی سانپ کی چھتری۔ الذَّبِيحُ: فا۔ داغ کرنے کا ایک آلہ جس سے گردن کے عرض میں داغ لگاتے ہیں۔ الذَّبِيحُ وَ السَّدْبِيحُ وَ الذَّبِيحَةُ وَ السَّدْبِيحَةُ: حلق کا درد۔ الذَّبِيحُ: ذبح کیا ہوا۔ قربانی کے لائق جانور۔ اسماعیل علیہ السلام کا لقب۔ الذَّبِيحَةُ: ذبح کا موٹ۔ جو عنقریب ذبح کیا جائے۔ ج ذَبَايِح۔ المِذْبِيحُ: ذبح کرنے کا اوزار۔ السَّدْبِيحُ: ذبح کرنے کی جگہ۔ ج مَذَابِيح۔ مَذَابِيحُ اللَّكَنَاتِ: گر جا کی قربان گاہ۔ ذَبَّدَبَ: الشیءُ الْمُعْلَقُ فِي الْهَوَاءِ: لٹکی ہوئی چیز کا حرکت کرنا..... السَّرْجُلُ: حیران و متردد ہونا۔ ذَبَّدَبْتُهُ: متردد حیران چھوڑنا۔ ذَبَّدَبَ أَهْلَهُ: حمایت کرنا..... الخَلْقُ: تکلیف پہنچانا..... الشیءُ: حرکت دینا۔ ہلانا۔	تَذَابَلُ: جھیرنا۔ چھوٹنا۔ ذُوَالَة: بھیرے کا علم جس۔ ج ذُوَالَانِ وَ ذُوَالَانِ. الذَّالَانِ وَ الذُّوَالَانِ: بھیریا۔ گیر۔ المِذَالُ: ہلکا پھلکا تیر۔ ذَامَهُ (ف) ذَامًا: عیب لگانا۔ رسوا کرنا۔ حمارت کرنا۔ دھتکارنا۔ أَذَامَهُ إِذَامًا: عَلَيَّ كَذًا: مجبور کرنا۔ الذَّامُ وَ السَّدَامُ: عیب اور امثال عرب میں سے ہے "قَدْ لَا تَعْدَمُ الْحَسَنَاءُ ذَامًا" یعنی کبھی خوبصورت عورت میں بھی عیب ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے "مَا سَمِعْتُ لَهُ ذَامَةً" میں نے اس سے ایک کلمہ نہیں سنا۔ ذَبَّ (ن) ذَبًا: غَنَهُ: دفع کرنا۔ حمایت کرنا۔ ذَبَّ (ض) ذَبًا وَ ذَبِينًا وَ ذُبُونًا: گرمی یا پیاس سے خشک ہونا..... جَسْمُهُ: لاغر ہونا۔ النَّبْتُ: پڑ مردہ ہونا۔ مرجھانا۔ ذَبَّ: البَعِيرُ أَوْ السَّرْجُلُ: مجنون ہونا..... الْفَرَسُ: گھوڑے کے نتھے میں کھی داخل ہونا۔ صفت (مُذَبُّوبٌ) ذَبَّ تَذَبُّبًا: بہت دفع کرنا..... شَفْتُهُ: ہونٹ کا پیاس وغیرہ سے خشک ہونا..... النَّهَارُ: چھوڑا ہوا رہنا۔ أَذَبَّ: الْمَكَانُ: بہت کھیوں والی ہونا۔ صفت (مُذَبُّوبٌ وَ مُذَبَّبٌ) الذَّبُّ: مصل۔ بہت حرکت کرنے والا۔ جنگلی تیل۔ الاذَّبُ: لہا۔ جنگلی تیل۔ اونٹ کی کچلی۔ الذَّبَابُ: کھی۔ ج اَذْبَةٌ وَ ذَبَانٌ ذَبَّ بَهْرٌ اور شہد کی کھی اور چھپر پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ واحد (ذَبَابَةٌ) ذَبَابٌ السَّيْفِ: تلوار کی دھار۔ ذَبَابُ الْعَيْنِ: آنکھ کی پٹی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ أَعَزُّ مِنْ ذَبَابِ الْعَيْنِ" وہ آنکھ کی پٹی سے زیادہ عزیز ہے۔ الذَّبَابُ: جنون۔ طاعون۔ بدبختی۔ دائمی برائی۔ الذَّبَابَةُ: ذَبَابُ: کا واحد۔ ذَبَابَةُ الشیءُ: چیز
---	---	---

<p>(أَذْرًا): مؤنث ذُرَّةٌ اء.</p> <p>أَذْرًا إِذْرَاءً: غضبناك کرنا۔ ذرانا..... ہ</p> <p>بالشئى: حریص بنانا..... ہ الشئى: مجبور کرنا..... السدفع: بہانا..... السافقہ: تھن میں دودھ اُتارنا۔ صفت (مُذْرِي)</p> <p>الذُرء: تھوڑی چیز۔ کہا جاتا ہے "يَكْفِيْنِي ذُرءٌ مِنْ خَيْرٍ" مجھے تھوڑی سی نیکی کافی ہے۔</p> <p>و"هُم ذُرَا النَّارِ" وہ لوگ آگ کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔</p> <p>الذُرءة: بڑھاپے کی ابتدا کی سفیدی جو کنپٹیوں میں ظاہر ہوتی ہے۔</p> <p>الذُرئى: بکھیرا ہوا۔ زُرْع ذُرئى: کھیت جس میں ابھی بیج ڈالا گیا ہو۔</p> <p>ذُرْب (س) ذُرْبَانَا و ذُرْبَانَةٌ و ذُرْبَانَةٌ السِّنْف: تلوار کا تیز ہونا۔ صفت (ذُرْب) ج ذُرْب..... السجْرُح: زخم کا خراب ہونا..... الرَجْل: عجز کے بعد صحیح ہونا..... السعفة: بگڑنا۔ درست ہونا۔ (ضد)</p> <p>ذُرْب (ن) ذُرْبَانَا و ذُرْبَانَةٌ السِّنْف: تلوار تیز کرنا۔ اذُرْب الرَجْل: تنگ گزارے والا ہونا۔</p> <p>الذُرْب: بھس۔ زبان کی تیزی۔ ناقابل علاج بیماری۔ زنگ۔ مورچہ۔ ج اذُرَاب۔ الذُرْب: جگر کی ایک بیماری۔ گردن کا غدود۔ رَجْل ذُرْب: تیز زبان مرد۔</p> <p>الذُرْب: مویج کی راہی۔ ذُرْب اللسان: تیز زبان۔ ج ذُرْب۔ لسان ذُرْب: زبان فصیح۔ فحش گو زبان۔</p> <p>الذُرْبَة: غدود۔ تیز زبان عورت۔ ج ذُرْب۔</p> <p>الذُرَاب: زہر۔</p> <p>الذُرْبى: عیب۔</p> <p>الذُرْبى: مصیبت۔</p> <p>الاذْرِيسى: خلاف قیاس۔ آذربائیجان کی جانب نسبت۔</p> <p>المذْرَب: زبان۔</p> <p>ذُرْح (ف) ذُرْحَانَا و ذُرْحَانَةٌ: صفت</p>	<p>اعمال اللہ کے ہاں ذخیرہ ہیں۔</p> <p>الاذْحَسر: سبز گھاس۔ ایک قسم کی خوشبودار گھاس۔ واحد اذْحَسرة ج اذْحَسِر.</p> <p>المذْحَر: ذخیرہ رکھنے کی جگہ۔ ج مذْحَار.</p> <p>المذْحَاجر: جوف۔ رگیں۔ انتڑیاں۔ پیٹ کے نچلے حصے۔</p> <p>ذُر: چھوڑ دے۔</p> <p>ذُر (ن) ذُرَا. المِلْح: نمک چھڑکنا۔</p> <p>الحبّ فى الارض: دانہ بونا..... الارض النبات: اگانا..... ذُرَا و ذُرُوْرَا القرن او النبات: اگانا..... الشمس: آفتاب طلوع ہونا..... اللحم: گوشت سکڑنا۔</p> <p>ذُر (س) ذُرَا و ذُرُوْرَا. الرَجْل: سر کے اگلے حصہ کا سفید ہونا۔</p> <p>الذُر: چھوٹی بیوی۔ ذرات۔ واحد (ذُرَة): نسل۔</p> <p>الذُرُوْر: آنکھ یا زخم میں چھڑکنے کی دوا۔ عطر۔ ج اذُرَة.</p> <p>الذُرْبَة: ایک قسم کی خوشبو۔</p> <p>الذُرئى: تلوار کی آب و جوہر۔</p> <p>ذُرْبَة. الرَجْل: بتسلیث اللال اولاد و نسل۔ ج ذُرَابى و ذُرْبَانَت.</p> <p>العصْبِلزار: غضب و غصہ۔ غصہ کی وجہ سے روگردانی۔</p> <p>الذُرَة واحد الذُر ج ذُرَات: بہت چھوٹا حصہ۔ اس کا دوسرا نام جوہر فرد۔</p> <p>علم کیمیا کا پرانا نظریہ تھا کہ ذرہ کے مزید کٹوے نہیں ہو سکتے۔ جدید نظریہ کے مطابق اس کے لاکھوں حصے بنائے جا سکتے ہیں۔</p> <p>الذُرَاة: دوا وغیرہ جو چھڑکنے سے گرے۔</p> <p>المیذْرَة: چھڑکنے کا آلہ۔ غلہ وغیرہ بکھیرنے کا سامان۔</p> <p>ذُرَا (ف) ذُرَا. اللہ الخلقى: پیدا کرنا۔</p> <p>الشئى: زیادہ کرنا..... الارض: بونا۔</p> <p>وذُرئى (س) ذُرَا شَعْرَة: سفید ہونا۔</p> <p>فُلانٌ: سفید بال والا ہونا۔ صفت</p>	<p>وذُئِل.</p> <p>الذَّابِلَة. الذَّابِل: کا مؤنث عَيْنٌ ذَّابِلَةٌ: چشم نیم باز۔ ج ذَوَابِل. الذَّوَابِل: رماح کی صفت ہے کہتے ہیں: "السَّرْمَاخ السَّوَابِل" یعنی باریک نیزے۔ صفت کو موصوف کے قائم مقام کر کے نفس رماح پر بھی اطلاق کرتے ہیں۔</p> <p>الذُّبَالَة و الذُّبَالَة: بتی۔ ج ذُبَال.</p> <p>ذُج (ن) ذُجَا: سفر سے واپس آنا۔</p> <p>الماء: پینا۔</p> <p>ذُجَلَة (ن) ذُجَلَا: ظلم کرنا۔ صفت (ذُجَل)</p> <p>ذُحَا..... ذُحَا: تھیر مارنا..... الحَطَب: لکڑی چیرنا۔ پھاڑنا..... الشَّفَل: مرجع کوٹنا..... الجارية: جماع کرنا۔</p> <p>ذُحَجَة (ف) ذُحَجَا: چھیلنا۔ حرکت دینا۔</p> <p>ذُحَجْتَة السَّرِيح: ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا..... المرأة بولدها: جننا۔</p> <p>ذُحْدَح: قریب قریب قدم رکھ کر تیز چلنا..... الرِيح التراب: خاک اڑانا۔</p> <p>الذُّخْل: خون کا بدلہ۔ دشمنی۔ کینہ۔ ج ذُخُول و اذُّخَال: تم کہتے ہو "لئى عندهم..... ذُخُول" مجھے ان سے کینہ ہے۔</p> <p>ذُخْسى (ض) ذُخْسىا. الصُّوف: اون کو کوٹنا..... الرِيح القوم: کھلی ہوا لگنا۔</p> <p>السَّدْحَلَة: بغیر درختوں والی زمین۔ ج مذاح.</p> <p>ذُخْر (ف) ذُخْرَا. الشئى: وقت ضرورت کے لئے چھپا رکھنا۔</p> <p>إذُّخْر و اذُّخْر: بمعنی ذُخْر.</p> <p>الذُّخْر. ذُخْر کا اسم جس کو ذخیرہ بنا کر رکھا جائے۔ ج اذُّخَار.</p> <p>الذَّاحِر: فا۔ موٹا۔</p> <p>الذُّخْرَة: وقت ضرورت کے لئے جو چیز چھپا کر رکھی جائے۔ ج ذُخْرَانَة: اسی سے ہے ذُخْرَانَة الخرب اور کہتے ہیں "انغمسال المؤمنین ذُخْرَانَة عند اللہ" مؤمنین کے</p>
---	---	---

الرِّبْعُ: ہوا میں اُڑانا..... الطَّعَامُ: ذراع
نامی کیزا ڈالنا۔ وَذَرْعُ السَّبَنِ: دودھ میں
پانی ملا نا۔ الزَّعْفَرَانُ فِي الْمَاءِ: پانی میں
تھوڑا سا زعفران ڈالنا۔

الذَّرَاحُ وَالذَّرُوحُ وَالذَّرِيحُ وَالذَّرَاحُ
وَالذَّرُوحُ وَالذَّرَاحُ وَالذَّرِيحَةُ
وَالذَّرُوحُ وَالذَّرُوحُ: ایک قسم کا اُڑنے
والا زہر دار کیزا۔ مفرد کا استعمال کم ہے جمع
ہی استعمال ہوتا ہے۔ تفسیر ذرّٰی: آتی
ہے۔

الذَّرَاحُ: پانی ملا ہوا دودھ۔
الذَّرِيحَةُ: پشت۔ ٹیلہ۔ رَجُ ذَرِيحٍ.
لَبَنٌ أَوْعَلَ (مُدَّرَجٌ): زیادہ پانی والا
دودھ یا شہد۔

ذَرَعٌ (ف) ذَرَعَا. الثَّوْبُ: ذراع سے
ٹاپنا..... ہ: کسی کے پیچھے سے ذراع سے گلا
گھونٹنا (دیکھئے ذراع) ذرعه القی: غالب
ہونا اور خود بخود آنا۔

ذَرَعٌ (ف) ذَرَعَا وَذَرَعٌ (س) ذَرَعَا.
عِنْدَ الرَّجُلِ وَالْيَهُ: سفارش کرنا۔ ذَرَعَتْ
رَجُلًا: چلنے سے عاجز ہونا۔

ذَرَعٌ (ک) ذَرَاعَةٌ. الفَرَسُ: گھوڑے کا
کشاہہ قدم ہونا۔ صفت (ذَرِيحٍ)
ذَرَعٌ. الرَّجُلُ: کسی کے پیچھے ہو کر ذراع سے
گلا گھونٹنا..... بالشئی: اقرار کرنا..... فی

السَّبَاحَةِ: تیرنے میں بازو پھیلاتا..... فی
المشئ: چلنے میں بازو ہلانا..... الرَّجُلُ:
ذراعے یا خوش خبری دینے کے لئے بازوؤں
کو بلند کرنا۔ کہا جاتا ہے "ذَرَعٌ لِي شَيْئًا مِنْ
خَيْرِهِ" اس نے مجھے کچھ خبر دی۔ و "ذَرَعَهُ
بَيْنَنَا" اس نے اس کو ہمارے درمیان وسیلہ
بنایا۔

ذَرَاعَةٌ: باہم مل جانا۔ الرَّجُلُ: ٹاپ کر پھینکا۔
صاحِبُهُ فَذَرَعَهُ: قدم بڑھانے میں مقابلہ
کرنا اور غالب رہنا۔

أَذْرَعُ الشَّيْءُ: ہاتھ سے قبضہ کرنا.....
ذِرَاعِيهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ: نکالنا..... فَيُ

الكَلامُ: بہت گفتگو کرنا۔
تَذَرَعُ. فِي الكَلَامِ: بہت گفتگو کرنا.....

الشَّيْءُ: ہاتھ سے ٹاپنا..... الْاِبْلُ الْمَاءِ:
بازوؤں تک پانی میں اُترنا۔ بِذَرِيحَةٍ: وسیلہ
بنانا..... الشَّيْءُ: ہاتھ ہاتھ پھر کا پھینکا۔
إِنذَرَعُ: ناگاہ پھینکا۔ کشاہہ چلنا۔

تَذَارَعَتْ. الْاِبْلُ الْمَفَارَظَةَ: طے کرنا۔
إِسْتَذَرَعُ. بالشئی: چھیننا اور وسیلہ بنانا۔
الذَّرَعُ: ہمس۔ ہاتھ کا پھیلاؤ۔ کہا جاتا ہے
"أَبْطَرْتُ فَلَانًا ذَرَعَهُ" میں نے اس کو

طاقت سے زیادہ تکلیف دی۔ و "أَبْطَرْتَنِي
ذَرَعِي" یعنی میرے بدن کو بلا کر دیا اور
میری معاش کو منقطع کر دیا۔ و "ضَفَقْتُ
بِالْأَمْرِ ذَرَعًا" یعنی میں اس پر قادر نہیں۔
و "هُوَ وَاسِعُ الذَّرَعِ" وہ صاحب قدرت

ہے۔ و "هُوَ خَالِي الذَّرَعِ" یعنی اس کا ول
رَجْعٌ وَغَمٌ سے خالی ہے۔ و "ذَرَعَهُ كَذَا" یعنی
اس کا طول اتنا ہے۔

الذَّرَاحُ. مِنَ الرَّجُلِ: کبھی سے بچ کی انگلی
تک کا حصہ۔ بازو (مؤنث ہے اور بھی مذکر
استعمال کرتے ہیں) طاقت۔ کہا جاتا ہے

"رَجُلٌ وَاسِعُ الذَّرَاحِ" مرد صاحب قدرت
و "وَضَاقَ بِالْأَمْرِ ذِرَاعَهُ" یعنی وہ اس پر قادر
نہیں و "هُوَ لَكَ عَلِي خَيْلِ الذَّرَاحِ" یہ
تمہارے لئے تیار و حاضر ہے۔ و "جَعَلْتُ
أَمْرَكَ عَلِي ذِرَاعِكَ" یعنی تمہارا معاملہ

میں نے تمہارے اوپر چھوڑ دیا ہے جیسا تمہارا
جی چاہے کرو۔ رَجُ أَذْرَعُ وَذَرَعَانِ.
وَالذَّرَاحُ مِنَ الْبَقْرِ وَالغَنَمِ: گائے اور بکری
کا دست..... مِنَ السَّخِيلِ وَالْاِبْلِ: گھوڑے
اور اونٹ کی پٹلی کے پٹے حصہ سے اوپر کا
حصہ۔ أَوْلَادُ ذِرَاعٍ وَأَوْلَادُ الذَّرَاحِ: کتے۔
گدھے۔

الذَّرَعُ: ہمس۔ اُمید۔ جنگلی پھیرا۔ رَجُ
ذِرْعَانِ.

الذَّرِيعُ: زبان دراز۔ رات دن چلنے والا۔
اچھی مصاحبت والا۔ مؤنث ذَرِيعَةٌ ج

ذَرِيعَاتُ الذَّرِيعَاتِ: تیز کشادہ قدم
والیاں۔

الذَّرِيعَةُ: وسیلہ۔ رَجُ ذَرِيعٍ.
الذَّرِيعُ: سفارش کرنے والا۔ تیز رفتار۔ کہا
جاتا ہے "مَوْثٌ ذَرِيعٌ" جلدی کی موت۔
و "قَتَلَ ذَرِيعٌ" حد سے بڑھا ہوا شنیع قسم کا
قتل۔

الذَّرِيعَةُ: وسیلہ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ ذَرِيعَتِي
إِلَى فَلَانٍ" وہ فلاں کے پاس میرے لئے
وسیلہ ہے۔ اُوْمِي جَسْ کے پیچھے شکاری شکار
کرنے کے وقت چھپتا ہے۔ رَجُ ذَرِيعٍ.

الذَّرِيعُ: بہت فصیح۔ کہا جاتا ہے "قَتَلَهُمْ
أَذْرَعٌ قَتْلًا" اس نے ان کو بہت جلدی اور
بہت برے طریقے سے قتل کیا۔

السَّذْرَاحُ: بھتی کی زمین اور جنگل و بیابان
کے درمیان کے دیہات۔ جانور کی ٹانگ۔
رَجُ مَذَارِيعٍ وَمَذَارِيعٍ.

السَّذْرَاحُ: مٹع۔ وہ اونٹ جس کے سینہ پر
تیز و غیرہ مارا گیا ہو اور اس کی انگلی ٹانگوں پر
خون بہ رہا ہو۔ سبقت کرنے والا گھوڑا۔

مِنَ الْبَيْضَانِ: تیل جس کی پتلیوں پر
سیاہ داغ ہوتا..... مِنَ النَّاسِ: جس کی ماں
باپ سے زیادہ شریف ہو۔

ذَرَفٌ (ض) ذَرَفًا وَذَرِيفًا وَذَرُوفًا
وَذَرَفَانًا وَتَذَرَفًا. الذَّمْعُ: بہنا۔ صفت
(ذَرِيفٌ وَمَذَرُوفٌ)..... الْعَيْنُ وَمَعَهَا:
بہانا..... (ذَرُوفَانًا): ست چال چلنا۔
ذَرَفٌ تَذَرِيفًا وَتَذَرِيفَةٌ وَتَذَرَفَانًا. الذَّمْعُ:
بہانا..... هِ الْمَوْتُ: قریب المرگ کرنا..... هِ
الشَّيْءُ: خبردار کرنا..... عَلَى الْخَمِيْسِ:
زائد ہونا۔ بڑھ جانا۔

إِسْتَذَرَفَ. الشَّيْءُ: قطرے قطرے ٹپکانا
..... الصَّرْعُ.

الذَّرَافُ: تیز رو۔
السَّذَارِفُ: آنسو بہنے کی جگہیں۔ کہا جاتا
ہے "سَأَلْتُ مَذَارِفَ عَيْنِيهِ" واحد

ذرق (ضن) ذرقا وأذرق. الطائر: بيتا کرنا۔ وأذرق المكان۔ أذرق: ایک انگوری زمین پر پھیلنے والی جوکہ طبی فوائد رکھتی ہے۔	الذرق والذرق: بلندی۔ بلند جگہ۔ ہر چیز کا بلند حصہ۔ ج ذرقی وذرقی۔ الذرق: بڑھاپا۔ الذرة: بکئی۔
الذرق: بیت۔	الجدزى والجدرة: جبلی جس سے گیہوں کھولتے ہیں۔ ج مذار۔
لبن (مذرق): پانی ملا ہوا دودھ۔	الجدزان: سر کے دونوں پہلو۔ دونوں سرین کے کنارے اور اسی سے ہے "جاء ينفض مذرويه" وہ دھکی دیتا ہوا آیا۔
ذرقط. الكلام: بولنا۔	مذرو القوس: کمان کے دونوں کنارے۔
ذرايزرو ذروا وذرقى بذرقى ذرقيا وذرقى تذرية وأذرى إذراء۔	تذعته. الجن: خوفزدہ کرنا۔
الريخ الثراب: اڑانا۔ بکھیرنا۔ الجنطة: اساون کرنا۔ أذرى الشئ: گرانہ۔ بکھیرنا۔	إنذعب. الماء: لگا تار بہنا۔
کہا جاتا ہے "أذراه الفرس من ظهره" اس کو کھوڑے نے اپنی پیٹھ سے گرا دیا۔ أذرت العين ذمغها: آنسو بہانا۔ ذرقى الشاة: اڈن تراشا اور علامت کے لئے کچھ چھوڑ دینا۔	الذعبان: جوان بکھیرنا۔
ذرايزرو ذروا. الشئ: ہوا میں اڑ جانا۔ الظئى: تیز دوڑنا۔ إلى فلان: قصد کرنا۔ فوه: دانت گرنا۔	المذعبانين: لگا تار دینا ہے۔
تذرى: غلہ کا بھوسہ سے صاف ہونا۔	"زأيتهم مذعبانين كأنهم عرف ضبان" میں نے لوگوں کو یکے بعد دیگرے دیکھا گویا کہ وہ لوگ زربجو کے ایال ہیں۔
المكان أو الخيل: کسی جگہ پر یا پہاڑ پر چڑھنا۔ کہا جاتا ہے "تذرى بسن برد الشمال بصخرة" یعنی اس نے شمالی ہوا کی ٹھنڈک سے چٹان کی پناہ لی۔	ذعت (ف) ذغنا: سخت گلا گھونٹنا۔ خاک آلود کرنا۔ نجى سے بٹانا۔
استذرى. به: پناہ لینا۔ بالشجرة: سایہ لینا۔	ذعبه (ف) ذعبجا: نجى سے بٹانا۔
الذرى: گھر کے سامنے کا صحن اور اس کے اطراف۔ جائے پناہ۔ ہر وہ جگہ جہاں تم چھپ سکو۔ تم کہتے ہو "اتخذت الحائط ذرى لى" میں نے دیوار کی پناہ لی۔ "وانا فى ذرى فلان" میں فلاں کی پناہ و حفاظت میں ہوں۔ "هو كسرىم الذرى" وہ طبعاً کریم ہے۔ الذرى: وہ غلہ جس کا اساون کیا جائے۔ گرا ہوا آنسو۔	الذعاع: فرقے۔ واحد (ذعاعه)
الذراوة: بھوسہ وغیرہ جو اساون کرتے وقت گرے۔ وہ چیز جس کو ہوا اڑا لے جائے۔	ذعذع. الشئ: پراگندہ کرنا۔ بکھیرنا۔ کہا جاتا ہے "ذعذعته الوايب" اس کو مصیبتوں نے جھڑجھڑا دیا۔ البسر أو الخسر: فاش کرنا۔ پھیلانا۔ الريخ الشجر: جھڑجھڑا دینا۔
	تذعذع: بکھیرنا۔ پھلانا۔ پراگندہ ہونا۔
	الذعذاع: چغل خور۔ بھید کو نہ چھپانے والا۔
	ذعاذع. النخل: بھجور کے رومی درخت۔ کہا جاتا ہے "تفرقوا ذعاذع: وہ لوگ ادھر ادھر متفرق ہو گئے۔
	ذعرة (ف) ذغورا: ڈرانا۔ خوفزدہ کرنا۔ گھبراہٹ میں ڈالنا۔
	ذعر: ڈرنا۔ صفت (مذعور)
	ذعر (س) ذعرا: دہشت زدہ ہونا۔
أذعرة: ڈرانا۔	
تذعر: ڈرنا۔	
أذعور: ڈرانا۔ گھبرانا۔	
الذعر: خوف۔ ڈر۔	
أمر (ذعر): خوفناک معاملہ۔	
الذاعر: قا۔ ڈرنے والا۔ ضیبت۔	
رجل (ذاعر) ذعرة وذعرة: عیب دار مرد۔	
الذعرة: دبر۔	
الذعرة: ایک پرندہ جو ہر وقت اپنی دم کو ہلاتا رہتا ہے۔	
سنة (ذعرة): سخت سال۔	
الذعور: خوفزدہ۔ تہمت اور برکی باتوں سے ڈرنے والی عورت۔	
ناقعة (مذعرة): پاگل آدمی۔	
ذعطه (ف) ذعطا: جلدی سے ذبح کرنا۔	
موت (ذاعط وذعوط): جلد آنے والی موت۔	
ذعف (ف) ذغفا: زہر قاتل پلانا۔	
الطعام: کھانے میں زہر ملانا۔	
ذعف (س) ذغفانا: مرنا۔	
أذغفه: جلدی مار ڈالنا۔	
إنذعف: دل کا کٹ جانا۔ سانس پھولنا۔	
الذعف والذعاف: فوراً ہلاک کرنے والا زہر۔ موت ذعاق: جلدی آنے والی موت۔ کہا جاتا ہے "حیة ذعف اللعاب" فوراً ہلاک کرنے والا سانپ۔	
الذعقان: جھس۔ موت۔	
طعام (مذعوف): زہر ملا ہوا کھانا۔	
ذعقه (ف) ذعقا: چیخنا۔ بہ۔ گھبرانا۔	
ذاع (ذعاق): مہلک بیماری۔ ماء ذعاق: سخت کھاری پانی۔	
ذعن (س) ذعنا وأذعن. له: مطیع و فرمانبردار ہونا۔ فروتنی کرنا۔ أذعن بالحق: اقرار کرنا۔	
المذعان: آسانی سے تابع ہونے والا۔	
ذع (ن) ذعنا: جاریتہ: جماع کرنا۔	

ذَفَّ (ض) ذَفًّا وَذَفَّفًا وَذَفَّافًا. عَلَى الْجَرِيحِ: فَوْرًا مَرْدًا نَا..... فِي الْأَمْرِ: جَلْدِي كَرْنَا..... ذَفَّفًا) الطَّاعُونَ فَلَتَا: بَلَكَ كَرْنَا.

ذَفَّفَ وَذَفَّ وَأَذَفَّ. الْجَرِيحُ وَذَفَّ عَلَيْهِ وَلَهُ: فَوْرًا مَرْدًا نَا. وَذَفَّفَ جَهَازًا رَاجِلِيَّةً: سَوَارِي كَيْ سَامَانَ كُوْلِكَ كَرْنَا.

ذَفَّ (ض) ذَفْفًا وَاسْتَذَفَّ اسْتِذْفَافًا. الْأَمْرُ يَمْكُنْ هُوْنَا.

الذَّفُّ: تَهْوِيٌّ پَانِي.

الذَّفَافُ: مَص. ذَفَّ عَلَى الْجَرِيحِ: كَا سَم تَهْوِيٌّ جِيزِ..... وَالذَّفَافُ: زَهْرَتَا تَل. تَهْوِيٌّ پَانِي. ج ذَفَّفَ وَأَذَفَّ. الذَّفَافُ: بَلَاكًا يَهْلِكُ تِيز.

الذَّفِيفُ وَالْمَذْفُفُ: بَلَاكًا يَهْلِكُ تِيز.

ذَفَّفَ ذَفْفَةً. الْجَرِيحُ: مَرْدًا نَا.

ذَفَّفَ: نَا ز سے چلنا.

ذَفَّرَ (س) ذَفَّرًا الشَّيْءُ: يُوْطَأُ هُوْنَا (عَام طَوْر سے بد بو میں مستعمل ہے) صفت (ذَفَّرَ وَأَذَفَّرَ): مَوْتٌ ذَفَّرَةٌ وَذَفَّرَاءٌ..... النَّبْتُ: زِيَادَةٌ هُوْنَا.

اسْتَذَفَّرَ: بِالْأَمْرِ: يَخْتَارُ ارَادَةٌ كَرْنَا.

الذَّفَرُ وَالذَّفْرَةُ: بُوْكِي تِيزِي. بد بو.

الذَّفْرَاءُ: أَيْكُ قَسْمُ كِي بد بو دار سِيزِي.

الذَّفْرِيَّةُ: كَانُ كَيْ جِيحِي كِي بَدِي. ج ذَفْرِيَّاتٌ وَذَفْرِيَّاتٌ وَذَفْرَاءُ.

رَوْضَةٌ (مَذْفُورَةٌ): بَاغٌ جَسْ مِيسِ ذَفْرَاءُ سِيزِي بَهِتْ هُو.

الذَّفْرَةُ: أَيْكُ خُوشْبُوَارِ پُوْدے كَا نَام.

ذَفْنَةٌ (ن) ذَفْنًا: شُوْرِي پَر مَارْنَا..... وَذَفْنٌ عَلَى يَدَيْهِ أَوْ عَصَاهُ: شُوْرِي كُو سَهَارِ اِيْنَا.

ذَفْنَةٌ مَذْفَانَةٌ: نَجْ كَرْنَا.

الذَّفْنُ وَالذَّفْنُ: شُوْرِي. ج أذْفَانُ.

الذَّفْنُ: بَهِتْ پُوْرْحَا.

الذَّفَانَةُ: حَلَقُ كَيْ كَنَارَه پَر اَبْهَرَا هُوَا حَصَه.

الاذْفَانُ: لَبِي شُوْرِي وَالا. مَوْتٌ ذَفْنَاءُ. ج ذَفْنُ.

ذَكَرَ (ن) ذِكْرًا وَتَذَكَّرًا. اللَّهُ: تَبَّحٌ وَتَجِدُّ كَرْنَا..... الشَّيْءُ: دَلٌ مِيسِ يَادِرْنَا..... لِفَلَانٍ حَدِيْفًا: ذَكَرْنَا..... الْأَمْرُ: اِجْبِي طَرَحٌ كَبْحَنَا..... اِسْمُ اللَّهِ: اَللَّهِ كَا نَامُ لِيْنَا..... حَقٌّ فَلَانٌ: كَيْ كَيْ حَفَاظَتُ كَرْنَا.

ذَكَرَ. الْكَلِمَةُ: تَدَكَّرَ اسْتِعْمَالَ كَرْنَا. ذِكْرُهُ الشَّيْءُ وَذِكْرُهُ بِهِ: يَادِرْنَا..... الْقَوْمُ: وَعَطَا نَفِيحَتُ كَرْنَا.

أَذَكَرُهُ. الشَّيْءُ: يَادِرْنَا..... الْمَوَاتَةُ: لِرَا كَيْ جِنَا. صفت (مذكر)

تَذَكَّرَ مَذَكَّرَةً. فِي الْأَمْرِ: كَيْ كَامِ مِيسِ بَاهِمٍ مَشْغُولٌ هُوْنَا. تَذَكَّرُوا الشَّيْءُ: كَيْ جِيْر كُو يَادِرْنَا.

تَذَكَّرَ. الشَّيْءُ: يَادِرْنَا.

تَذَكَّرُوا إِذْ ذَكَرُوا إِذْ ذَكَرُوا اسْتَذَكَّرَ. الشَّيْءُ: يَادِرْنَا. وَاسْتَذَكَّرَ الشَّيْءُ: يَزْهِنَا. حَفْظُ كَرْنَا. اسْتَذَكَّرَ الرُّجُلُ: يَادِرَا شَتِ كَيْ لِي كَيْ كِي اَلْكَلِي مِيسِ دَحَا گَا بَا نَدِه دِيْنَا.

الذِّكْرُ: مَص. شَهْرَتُ. كَمَا جَا تَا هِي "لَهُ ذِكْرٌ فِي السَّنَنِ" اس كِي لُوگوں مِيسِ شَهْرَتُ هِي تَعْرِيْفُ وَثَنَاءُ. شَرَفٌ وَبِزْرِي. نَمَازٌ وَذَعَا. وَالذِّكْرُ مِيسِ الرِّجَالِ: تُوْنَا دُوْلَا وَرَمَرَدٌ.

مِنَ الْقَوْلِ: بَلَدٌ وَتَجِدُّهُ قَوْلٌ..... مِيسِ الْمَطَرِ: بُرْءُ قَطْرُوں وَالِي بَارَشُ. ذِكْرُ الْمَيْتِ: مَرْنَةُ كَيْ بَعْدُ لُوگوں كِي زَبَانِ پَر نَامُ بَاتِي رَهْنَا. ذِكْرُ الْحَقِّ: چَك. ج ذِكْوَرُ.

الذِّكْرُ: يَادِرَا وَرِي. كَمَا جَا تَا هِي "وَاجْعَلْهُ مِيسِي عَلِي ذِكْرٌ" اس كُو مِرے لِي اِيَا كَر دے كَيْ مِيسِ زَبْهُولُوں.

الذِّكْرُ وَالذِّكْرُ وَالذِّكْوَرُ وَالذِّكْرُ: بَهِتْ يَادِر كَرْنَةُ وَالا. اِجْبِي قُوْتٌ حَاظَفُوْلَا. اِجْبِي يَادِرَا شَتِ وَالا. وَالذِّكْرُ مِيسِ الْحَدِيدِ: عَمَدَةٌ وَرِخْتُ لُو بَارِ جُلُّ ذِكْرُ: خُوْدَارِ مَرُو. اِمْرَاةٌ ذِكْرَةٌ: مَرْدُوں سِي مَشَابَهَتُ كَرْنَةُ وَالِي عَوْرَتُ.

الذِّكْرَةُ: يَادِرَا.

الذِّكْرُ: نَزْر..... مِيسِ الْحَدِيدِ: عَمَدَةٌ لُو بَا..... مِيسِ السُّحَّاسِ: نَخْتُ تَانَا جُو اِجْبِي طَرَحُ كُو نَا تَا جَا كَيْ. سَيْفٌ ذِكْرٌ: تَلُوَارِ جَسْ كِي دَحَارِ عَمَدَةٌ لُو بِي كِي هُوَا رِشْتُ مَعْمُولِي لُو بِي كِي قَطْرُ ذِكْرٌ: نَخْتُ بَارَشُ. الذِّكْرُ مِيسِ النَّخْلِ: بَيْهَلُ نُوْدِيْنَةُ وَالا شَجُوْرَا وَرِخْتُ. ج ذِكْوَرُ. وَذِكْوَرَةٌ وَذِكْوَرَانٌ وَذِكْوَرٌ وَذِكْوَارَةٌ وَذِكْوَارَةٌ. ذِكْوَرُ الْبَقْلِ: دَهْرُ كَارِيَاں جُو لَبِي وَرِخْتُ هُوْكِي هُوں.

الذِّكْرُ: عَضُوْتَا تَل. ج ذِكْوَرٌ وَمَذَا كَبِيْرُ.

الذِّكْرِيَّةُ: يَادِرِهَانِي. دَلٌ يَا زَبَانُ سِي يَادِرْنَا.

الذِّكْرَةُ: شَهْرَتُ. كَلْبَاهِي كِي سِر پَر فُوْلَا دَا كَلْبَا وَذِكْرَةُ السَّيْفِ: تَلُوَارِ كِي تِيزِي.

الذِّكْرَةُ: ذَاكِرٌ كَا مَوْتٌ. قُوْتٌ حَاظَفُ.

الذِّكْرَةُ: ضَرُوْرَتُ كُو يَادِرْنَا لِي وَالِي جِيْرُ. وَعِنْدَ الْمَوْلِيْدِيْنِ: مَرْقَلِيْكُ. پَا سِپُوْرَتُ. كَلْكُ. ج تَذَكَّرُ.

رَجُلٌ (ذِكْرَانٌ): اَللَّهِ تَعَالَى كُو بَهِتْ يَادِر كَرْنَةُ وَالا.

الذِّكْوَرَةُ: مَرْدِي.

الْمَذَكَّرُ: لِرَا كَيْ جِنَةُ وَالِي عَوْرَتُ. يَوْمٌ مُذَكَّرٌ: نَخْتُ دِهَشَتُ كَادُوْنُ. طَرِيْقٌ مُذَكَّرٌ: خُوْفَا كِ رَا سَتُ. ذَاهِيَةٌ مُذَكَّرٌ: نَخْتُ مَعْصِيَتُ.

الْمَذَكَّرُ: نَزْر..... مِيسِ السُّيُوْفِ: آ بَدَارِ تَلُوَارِ طَرِيْقٌ مُذَكَّرٌ: خُوْفَا كِ رَا سَتُ. يَوْمٌ مُذَكَّرٌ: نَخْتُ دِهَشَتُ كَادُوْنُ.

الْمَذَكَّرَةُ وَالْمَذَكَّرَةُ: مَرْدُوں كِي مَشَابَهَتُ كَرْنَةُ وَالِي عَوْرَتُ.

الْمَذَكَّرُ: عَوْرَتُ جَسْ كِي عَادَتُ لِرَا كَيْ جِنَةُ كِي هُوَا رُخْصٌ مِيسِ كَارُ: نَخْتُ تَر كَارِي اُگَا نِي وَالِي زَمِيْنُ.

ذَكَتٌ تَذَكْوُ ذِكْوًا وَذَكَا وَذَكَاءٌ وَاسْتَذَكَّتْ. النَّارُ: نَخْتُ شَعْلُهُ يَهْرُ كَرْنَا.

الشَّمْسُ: آ قَتَابُ كَا نَخْتُ كَرْمُ هُوْنَا.....

الذِّكْرَةُ: يَادِرَا.

الذِّكْرُ: نَزْر..... مِيسِ الْحَدِيدِ: عَمَدَةٌ لُو بَا..... مِيسِ السُّحَّاسِ: نَخْتُ تَانَا جُو اِجْبِي طَرَحُ كُو نَا تَا جَا كَيْ. سَيْفٌ ذِكْرٌ: تَلُوَارِ جَسْ كِي دَحَارِ عَمَدَةٌ لُو بِي كِي هُوَا رِشْتُ مَعْمُولِي لُو بِي كِي قَطْرُ ذِكْرٌ: نَخْتُ بَارَشُ. الذِّكْرُ مِيسِ النَّخْلِ: بَيْهَلُ نُوْدِيْنَةُ وَالا شَجُوْرَا وَرِخْتُ. ج ذِكْوَرُ. وَذِكْوَرَةٌ وَذِكْوَرَانٌ وَذِكْوَرٌ وَذِكْوَارَةٌ وَذِكْوَارَةٌ. ذِكْوَرُ الْبَقْلِ: دَهْرُ كَارِيَاں جُو لَبِي وَرِخْتُ هُوْكِي هُوں.

الذِّكْرُ: عَضُوْتَا تَل. ج ذِكْوَرٌ وَمَذَا كَبِيْرُ.

الذِّكْرِيَّةُ: يَادِرِهَانِي. دَلٌ يَا زَبَانُ سِي يَادِرْنَا.

الذِّكْرَةُ: شَهْرَتُ. كَلْبَاهِي كِي سِر پَر فُوْلَا دَا كَلْبَا وَذِكْرَةُ السَّيْفِ: تَلُوَارِ كِي تِيزِي.

الذِّكْرَةُ: ذَاكِرٌ كَا مَوْتٌ. قُوْتٌ حَاظَفُ.

الذِّكْرَةُ: ضَرُوْرَتُ كُو يَادِرْنَا لِي وَالِي جِيْرُ. وَعِنْدَ الْمَوْلِيْدِيْنِ: مَرْقَلِيْكُ. پَا سِپُوْرَتُ. كَلْكُ. ج تَذَكَّرُ.

رَجُلٌ (ذِكْرَانٌ): اَللَّهِ تَعَالَى كُو بَهِتْ يَادِر كَرْنَةُ وَالا.

الذِّكْوَرَةُ: مَرْدِي.

الْمَذَكَّرُ: لِرَا كَيْ جِنَةُ وَالِي عَوْرَتُ. يَوْمٌ مُذَكَّرٌ: نَخْتُ دِهَشَتُ كَادُوْنُ. طَرِيْقٌ مُذَكَّرٌ: خُوْفَا كِ رَا سَتُ. ذَاهِيَةٌ مُذَكَّرٌ: نَخْتُ مَعْصِيَتُ.

الْمَذَكَّرُ: نَزْر..... مِيسِ السُّيُوْفِ: آ بَدَارِ تَلُوَارِ طَرِيْقٌ مُذَكَّرٌ: خُوْفَا كِ رَا سَتُ. يَوْمٌ مُذَكَّرٌ: نَخْتُ دِهَشَتُ كَادُوْنُ.

الْمَذَكَّرَةُ وَالْمَذَكَّرَةُ: مَرْدُوں كِي مَشَابَهَتُ كَرْنَةُ وَالِي عَوْرَتُ.

الْمَذَكَّرُ: عَوْرَتُ جَسْ كِي عَادَتُ لِرَا كَيْ جِنَةُ كِي هُوَا رُخْصٌ مِيسِ كَارُ: نَخْتُ تَر كَارِي اُگَا نِي وَالِي زَمِيْنُ.

ذَكَتٌ تَذَكْوُ ذِكْوًا وَذَكَا وَذَكَاءٌ وَاسْتَذَكَّتْ. النَّارُ: نَخْتُ شَعْلُهُ يَهْرُ كَرْنَا.

الشَّمْسُ: آ قَتَابُ كَا نَخْتُ كَرْمُ هُوْنَا.....

الْحَرْبُ: لِإِثْمِ كَاتِمٍ هُوَ -

ذَكَى يَذْكِي وَيَذْكِي يَذْكِي وَذُكُو يَذْكُو
ذَكَاءٌ: تِيزٌ خَاطِرٌ هُوَ - صَفْتُ (ذُكَيْتُ): مَوْتٌ
ذُكَيْتُهُ: جِ أَدْكِيَاءُ.

ذُكَا يَذْكُو ذُكَا وَذُكَاةٌ: الذَّبِيحَةُ: ذَبْحٌ
كَرْنَا..... ذُكَاةً (الْمِسْكُ: مَسْكٌ كِي خُشْبُو
بُهِرْنَا - صَفْتُ (ذُكَيْتُ)

ذُكَيْتُ: النَّارُ: آگ بھڑکانا..... الْحَرْبُ:
لِإِثْمِ كِي آگ بھڑکانا..... الذَّبِيحَةُ: ذَبْحٌ
كَرْنَا: الرَّجُلُ: بڑی عمر کا اور موٹا ہونا -

أَذْكِي: النَّارُ: آگ بھڑکانا - روشن کرنا -
الْحَرْبُ: لِإِثْمِ كِي آگ بھڑکانا اور کہا جاتا
ہے "أَذْكِي عَلَيْهِ الْعَيْونُ" اس نے اس پر
جاسوس بھیجے -

اسْتَذْكِي اسْتَذْكَاةً: النَّارُ: آگ بھڑکانا -
روشن کرنا - اسْتَذْكَيْتِ النَّارُ: آگ کا تیز
بھڑکانا - الذَّكَاةُ: مِصٌّ - تِيزِ خَاطِرٌ - زُوو
نَمِي -

ذُكَاةٌ: آفَاتُ كِ اسْمِ عِلْمٍ (غَيْرُ مُنْصَرَفٍ)
كُيَا جَاتَا "طَلَعَتْ ذُكَاةٌ" آفَاتُ طُلُوعِ
هُو كِيَا - اِبْنُ ذُكَاةٍ: صَبْحٌ -

الذُّكُوَّةُ وَالدُّكَيْتَةُ: اِبْدِئْ مِنْ - آگ سلگانے
کی چیز -

الذُّكَاةُ: مِصٌّ - اِنْكَارًا..... وَالدُّكَاةُ:
ذَبْحٌ -

المُذْكِي وَالمُذْكِي: مِنَ السَّحَابِ: بَهْتٌ
يَارِشُ وَالاِبْدَالُ - المُذْكِي مِنَ الخَيْلِ:
تُحَوِّرُ اِبْسِ كِي عَمْرٍو بِي اُور قُوْتِ كَامِلِ هُو كِي
ہو - جِ المَذَاكِي وَالمُذْكِيَاتُ.

ذَلَّ (ض) ذَلَا وَذَلَّةٌ وَذَلَالَةٌ وَمَذَلَّةٌ: ذَلِيلٌ
ہونا - خوار ہونا - صَفْتُ (ذَلِيلٌ وَذَلَانٌ) جِ
أَذَلَّاءُ وَأَذَلَّةٌ وَذَلَالٌ. (..... ذَلَّ
وَذَلَّ) البَعِيْرُ: آسانی سے تابع ہونا - صَفْتُ
(ذَلُولٌ) جِ أَذَلَّةٌ وَذَلِيلٌ: كُيَا جَاتَا "ذَلَّتْ
لَهُ القُوَاهِي" اسے قُوَاهِي كِي آمد ہوئی -

ذَلَّلَهُ وَأَذَلَّهُ وَاسْتَذَلَّهُ: ذَلِيلٌ كُرْنَا - أَذَلَّهُ
وَاسْتَذَلَّهُ: ذَلِيلٌ پاتا - وَأَذَلَّ الرَّجُلُ: مُسْتَقِ

ذَلَّتْ هُوْنَا - ذَلِيلٌ سَاتِمِيوں وَالا هُوْنَا -

ذَلَّلَ: الكُرْمُ: گچھے لٹکا یا جانا یا برابر کیا
جانا..... السَّخْلُ: درخت خرما کے خوشوں کو
لکڑی پر رکھنا -

تَذَلَّلَ: لَهُ: خَاكِسَارِي وَفِرْتِي كُرْنَا -

الذَّلُ: مِصٌّ - مِهْرَبَانِي وَزَمِي - ذَلَّ الطَّرِيقُ:
راستہ کا روندنا ہوا صَدْرُ أَذَلَالٌ كُيَا جَاتَا
ہے "ذَغُهْ عَلِي أَذَلَالِه" اس کو اپنی حالت پر
چھوڑ دو - "جَاءَ عَلِي أَذَلَالِه" وہ اپنے طور
طریقہ پر آیا - "أَمُورُ اللّهِ جَارِيَةٌ أَذَلَالِهَا
أَوْ عَلِي أَذَلَالِهَا" اللّٰه كے اُمُور حَسْبُ مَوَاقِعِ
جَارِي ہيں - وَأَذَلَالُ النَّاسِ: سب سے
آخري لوگ -

الذَّلُ: مِصٌّ - تَابِعْدَارِي - سَهْلَةٌ - زَمِي -
تَوَاضَعٌ - كُيَا جَاتَا "ذَلَّ ذَلِيلٌ" ذَلِيلٌ
كُرْنَا وَالا يَابُزِي ذَلَّتْ -

الذَّلُولِيُّ: زَمٌ اُور اِتَّجَمَّ اخْلَاقٌ وَالا -
طَرِيقٌ مُذَلَّلٌ: چلتا ہوا راستہ -
شَجَرَةٌ مُذَلَّلَةٌ: درخت جس کو ہر شخص یا
لے -

ذَلَجَ (ن) ذَلَجًا: المَاءُ: جُھونٹ جُھونٹ پینا -
الذَّلَاحُ: پَانِي مَلَا هُوَادُوْدُه -

ذَلَجَ (ف) ذَلَجًا: پِئْتِي ہوتے ہونٹ وَالا
ہونا - صَفْتُ (أَذَلَجَ..... الطَّعَامُ: كُيَا جَاتَا.....
الجَارِيَةُ: جَمَاعٌ كُرْنَا -

ذَلَفَتْ (س) ذَلَفًا: شَفَفَتْ: ہونٹ کا لٹنا -
صَفْتُ (أَذَلَفَ)
تَذَلَّلَ: الشَّيْءُ: ذُھيلا ہونا - مضطرب ہونا -

الذَّلِيلُ وَالذَّلِيلُ: كِپڑے کا دامن - جِ
ذَلَّذِلٌ: كُيَا جَاتَا "شَجَرٌ ذَلَّذَلْتُ كُيَا لِهَذَا
الأَمْرُ" اس کام کے لئے اپنے دامن کو سیٹ
لو - یعنی مستعد ہو جاؤ - ذَلَّذِلُ النَّاسِ
وَذَلَّذِلَاتُهُمْ" سب سے آخري لوگ -

ذَلَفَ (س) ذَلَفًا: الأَنْفُ: ناک چھوٹی اور
ہموار ہونا -

الأَذَلَفُ: چھوٹی اور ہموار ناک وَالا - مَوْتٌ
ذَلَفَاءُ جِ ذَلَفٌ

ذَلَقَ (ن) ذَلَقًا وَأَذَلَقَ: الطَّائِرُ: بِيْثٌ كُرْنَا -

ذَلَقَ اللِّسَانُ: تِيزٌ فَصِيحٌ هُوْنَا - (..... وَأَذَلَقَ
وَذَلَقَ) السَّجِيْنُ: جِھری تیز کرنا - ذَلَقَهْ
وَأَذَلَقَهْ وَذَلَقَهْ: كَزُورٌ وَالا غَرَا كُرْنَا - ذَلَقَ
الصَّبُّ: بِجُوكُو بَاهِرْتَا لِنَے كے لئے سوراخ میں
پانی ڈالنا -

ذَلَقَ (س) ذَلَقًا: السِّيفُ اُور اللِّسَانُ: تَلَوَارٌ
يَا زِيَانٌ كَاتِمٌ هُوْنَا..... السِّوَاخُ: جِھراغُ روشن
ہونا..... الرَّجُلُ: رنجیدہ ہونا -

..... مِنَ العَطَشِ: پيائیں سے قریب الموت
ہونا -

ذَلَقَ (ك) ذَلَقَةً: اللِّسَانُ: فَصِيحٌ هُوْنَا -
إِنذَلَقَ: تِيزِ زَبَانٌ هُوْنَا -

الذَّلَقُ: مِصٌّ - ذَلَقَ الشَّيْءُ ذَلَقَهُ: كُيَا جَاتَا
تِيزِي - ذَلَقَ اللِّسَانُ: زَبَانٌ كَا كُنَارُه - ذَلَقَ
السَّهْمُ: تِيزِ كَا بَارِكِ حَصَه -

الذَّلَقُ وَالذَّلَقُ وَالذَّلَقُ وَالذَّلَقُ وَالذَّلَقُ
وَالسَّلَقِيُّ: مِنَ الأَلْبِسَةِ اُور الأَيْسَةِ: تِيزِ
زَبَانٌ يَابِھَالَا - كُيَا جَاتَا "لِسَانٌ ذَلَقَ طَلِقٌ
وَذَلَقَ طَلِقٌ وَذَلَقَ طَلِقٌ" تِيزِ زَبَانٌ فَصِيحٌ
بَلِغٌ -

الأَذَلَقُ: مِنَ الأَلْبِسَةِ اُور الأَيْسَةِ: تِيزِ زَبَانٌ يَابِھَالَا - جِ ذَلَقٌ

الذَّلُوقُ: مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: ہر چیز کی تیزی -
ذَوَلَقُ اللِّسَانِ: زَبَانٌ كَا كُنَارُه اُور اِسِي سے
ہے "الأَخْرَفُ الذَّلُوقِيَةُ" یعنی وہ حروف
جن کا تخرج کُنَارُه زَبَانِ ہے -

یہ حروف چھ ہیں تین ان میں
سے شفوئی (دو ہونٹ کے ملنے کی وجہ سے ادا
ہونے والے حرف) وہ تین حرف: با - فا -

میم ان کا دوسرا نام ذَلَقِيہ ہے - ان میں سے
تین حرف زَبَانِ کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں -
وہ تین حرف لَامُ رَا نُونٌ - ان کا نام
ذَوِيقَةُ ہے - ان میں سے تین حرف زَبَانِ کی
جڑ سے ادا ہوتے ہیں - وہ تین حرف لَامُ رَا
نُونٌ ان کا نام ذَوِيقَةُ ہے -

السَّدَلَقُ: تِيزِ كُنَارُه وَالا - پَانِي مَلَا هُوَادُوْدُه -

<p>سا سونا یا کھیراں ہوتا۔ أَذْهَبَ وَذَهَبَ: سونے کی قلعہی کرنا۔ صفت معنوی (ذہیبٌ وَمُذَهَّبٌ وَمُذَهَّبٌ) أَذْهَبَهُ وَأَذْهَبَ بِهِ: لے جانا۔ جگہ سے ہٹانا۔ الذَّهَبُ: بھس۔ سونا (کبھی مَوْنُثٌ بھی بولتے ہیں) ذَّهَابٌ وَذُهُوبٌ وَذَهَبَانٌ: ایک ٹکڑے کو (ذَّهَبَةٌ) کہتے ہیں۔ الذَّهَبُ: اٹلے کی زردی۔ رَجْ ذَهَابٌ وَأَذْهَابٌ: جو حجِ أَذْهَابِ. الذَّهَبَةُ: ہلکی یا بہت بارش۔ رَجْ ذَهَابٌ وَأَذْهَابٌ: وجحِ أَذْهَابِ. الذَّهُوبُ: جانے والا۔ المَذْهَبُ: بھس۔ روش۔ طریقہ۔ اعتقاد۔ اصل۔ رَجْ مَذَاهِبٌ "تَمَّ مَذْهَبٌ بِالْمَذْهَبِ" اسی سے فعل بنا ہے یعنی اس نے مذہب اختیار کیا۔ مشہور مذاہب چار ہیں۔ حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی۔ المَذْهَبَاتُ: زمانہ جاہلیت کے طبقہ ثانیہ کے آٹھ تعلقات کے علاوہ سات تصانف۔ ذَهْرٌ (س) ذَهْرًا: فوہ: کالے دانتوں والا ہونا۔ صفت (أَذْهَرُ) مَوْنُثٌ ذَهْرًا رَجْ ذُهْرٌ. ذَهْلٌ (ف) ذَهْلًا وَذُهُولًا: الشَّيْءُ وَعَنَتُهُ: بھول جانا۔ غافل ہو جانا۔ ذَهْلٌ (س) ذُهُولًا: بھلا بکا ہونا۔ ہوش میں نہ رہنا۔ أَذْهَلٌ: غافل کر دینا۔ الذُّهْلُ وَالذُّهْلُ: مِنَ اللَّيْلِ: رات کا ایک حصہ۔ المَذْهَلُ: بھلا بکا ہونے کی جگہ۔ الذُّهْلُولُ: مِنَ التَّخِيلِ أَوْ الرَّجَالِ: عمدہ گھوڑا۔ اچھا آدمی۔ رَجْ ذَهَالِيلُ. ذَهْنٌ (ف) ذَهْنًا: الأَمْرُ: سمجھنا۔ تیزی خاطر میں غالب آنا)..... وَأَذْهَنَ وَاسْتَذْهَنَ الرَّجُلُ عَنِ الأَمْرِ: فراموش کر دینا۔ ذَهْنٌ (س) ذَهْنًا: الشَّيْءُ: سمجھنا۔ ذَهْنٌ (ك) ذَهَانَةٌ: اچھے حافظہ والا ہونا۔</p>	<p>اور اس کے درمیان دشمنی ہے۔ الذَّنَابُ: اُونٹ کی دم پاندھنے کی رمی۔ ذِنَابُ الشَّيْءِ: چیز کا پچھلا حصہ۔ رَجْ ذَنَائِبُ. الذَّنَابَةُ: قرابت۔ (.....) وَالذَّنَابَةُ وَالذَّنْبَةُ: مِنَ الوَادِي: وادی کے بننے کی انتہائی جگہ۔ الذَّنْبَةُ: دم۔ ذَنَابَاتُ النَّاسِ وَذَنَابَاتُهُمْ: لوگوں میں معمولی اور گھٹیا درجہ کے لوگ۔ الذَّنَابِيُّ: پرندہ کی دم۔ الذَّنُوبُ: مِنَ التَّخِيلِ: لہسی اور زیادہ بالوں کی دم والا گھوڑا۔ رَجْ ذَنَائِبٌ وَذَنَابٌ وَأَذْنَبَةٌ: الذَّنُوبُ: قبر۔ دنبہ کی پچلی کا گوشت۔ ذَنْبٌ (أَذْنَبُ): لہسی دم والی گوہ۔ الذَّنْبِيُّ وَالذَّنْبِيُّ: دم۔ المِذْنَبُ: لہسی دم۔ پتلا نالہ۔ کہا جاتا ہے "سَأَلْتُ المِذْنَابِيَّ" نالے بہ پڑے (.....) وَالْمِذْنَابِيُّ: چچچ۔ المِذْنَبُ: دم دار اور اسی سے ہے "نَجْمٌ مُذْنَبٌ" دم دار تارہ۔ المِذْنَابِيُّ: مِنَ الأَبْلِ وَالتَّخِيلِ: سب سے آخر میں چلنے والا اُونٹ یا گھوڑا۔ نَجْمٌ مُذْنَبٌ: دم دار ستارہ۔ اس ستارے کا ڈم کئی سالوں کے بعد ظہور ہوتا ہے۔ ۱۹۱۰ء میں ظاہر ہوا تھا پھر ۱۹۸۸ء میں ظاہر ہوا۔ ذِهْ وَذِهْ: اسم اشارہ مَوْنُثٌ ہے قریب کے لئے اور اس پر "حا" تثنیہ داخل کرتے ہیں اور کہتے ہیں هَذِهِ وَهَذِهِ. ذَهَبٌ (ف) ذَهَابًا وَذُهُوبًا وَمُذَهَّبًا: جانا۔ گزرتا۔ مرنا۔ الأَمْرُ: ختم ہونا..... على الشَّيْءِ: بھول جانا..... یہ: لے جانا۔ ساتھ جانا۔ جگہ سے ہٹانا اور اسی سے ہے "ذَهَبْتُ بِهِ الخِيَلَاءَ" اس کو تکرار لے گیا یعنی اس کو اس کے مرتبہ سے گرا دیا۔ فِي المَسْئَلَةِ إِلَى كَذَا: فلاں رائے اختیار کرنا۔ ذَهَبٌ (س) ذَهَابًا: سونے کی کان میں بہت</p>	<p>"وَمَا زَالَ يَبْدُو لِي تِلْكَ الحَاجِبَةُ حَتَّى ابْصَحْتَهُمَا): وہ ہمیشہ اس حاجت میں لگا رہا یہاں تک کہ اس کو کامیاب کر لیا۔ ذَنْ (س) ذَنًا وَذَنْ: رینٹ بننے والا ہونا۔ ذَنْ (ض) ذَنِينًا: البرؤ: سخت سردی ہونا۔ الذَّننُ: گندگی۔ الأَذْنُ: وہ شخص جس کے دونوں نتھوں سے رینٹ بہ رہی ہو۔ مَوْنُثٌ ذَنًا. رَجْ ذَنْ اور أَنْفُكَ مِنْكَ وَإِنْ كَانَ أَذْنٌ مِثَالٌ ہے۔ اس شخص کے حق میں بولتے ہیں جو اپنے ضعف قوم سے بیزار ہو۔ الذَّنَانُ وَالذَّنِينُ: بننے والی رینٹ۔ الذَّنَانَةُ: حاجت۔ کمزور چیز کا بقیہ۔ ذَنِيهِ (ض) ذَنِيًا: پیچھے لگے رہنا۔ ذَنْبٌ: العِمَامَةُ: شملہ لگانا..... الكِتَابُ: تتر لگانا..... الضَّبُّ: بچو کی دم پلڑ لینا..... الجِرَادُ: مڈی کا اٹلے دینے کے لئے زمین میں دم چھوٹا..... الضَّبُّ: بچو کا سوراخ سے صرف دم باہر نکالنا۔ أَذْنَبُ: الرَّجُلُ: گنہگار ہونا۔ تَذَنَّبَ عَلَيْهِ: زیادتی کرنا..... الرَّجُلُ: شملہ لگانا..... الطَّرِيقُ: راستہ اختیار کرنا۔ تَذَانَبُ: السَّخَابُ: بادلوں کا ایک دوسرے کے پیچھے ہونا۔ اسْتَذْنَبَهُ: پیچھے جانا۔ گنہگار پانا یا سمجھنا..... الأَمْرُ: کامل ہونا۔ الذَّنْبُ: گناہ۔ رَجْ ذُنُوبٌ: وجحِ ذُنُوبَاتُ. الذَّنْبُ: مِنَ الحَيَوَانِ: دم۔ رَجْ أَذْنَابُ. أَذْنَابُ النَّاسِ: معمولی لوگ۔ ذَنْبٌ العَقْرَبُ: بچو کا ڈمک۔ ذَنْبُ السُّوْطِ: کوڑے کا کنارہ۔ ذَنْبُ القَعْلَبِ وَذَنْبُ الفَرَسِ وَذَنْبُ الخَيْلِ: مختلف نباتات کے نام اور کہا جاتا ہے "ضَرَبَ بِذَنبِهِ" اس نے اقامت کر لی۔ وَرَكِبَ ذَنْبَ البَعِيرِ: وہ ناقص حصہ پر راضی ہو گیا۔ وَرَكِبَ ذَنْبُ الرِّيحِ: وہ آگے بڑھ گیا اور کوئی اس کو نہ پنا سکا۔ وَ"بَنِي ذَنْبَ الضَّبِّ" میرے</p>
---	---	---

ذہن: ذہن کا زائل ہونا۔

ذَاهِنَةٌ: زیرکی و تیزی خاطر میں مقابلہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "أَنَّهُ يُذَاهِنُ النَّاسَ وَيَقَاطِبُهُمْ" وہ لوگوں سے ذہانت اور فطانت میں مقابلہ کرتا ہے۔ أَقْرَبُ السَّمَوَاتِ میں شرح اشارات کے حوالہ سے ہے کہ علوم حاصل کرنے کے لئے نفس کی استعداد کا نام ذہن ہے اور اس استعداد کی جودت کا نام فطانت ہے۔

الْبَهْنُ: سمجھ۔ عقلی قوت۔ حافظہ۔ زیرکی۔ تیزی خاطر۔ چربی۔ قوت اور اسی سے ہے "مَابِرٌ بَجَلِي ذُهْنٌ" میرے پیر میں چلنے کی قوت نہیں۔ جِ اَذْهَانَ.

الذَّهْنُ: سمجھ۔ زیرکی۔ جِ اَذْهَانَ کہا جاتا ہے "هُوَ مِنْ أَهْلِ الْأَذْهَانِ" وہ سمجھ دار لوگوں میں سے ہے۔

رجل (ذہن و ذہن): ذکی اور سمجھ دار مرد۔ ذَهَانٌ (ن) ذَهْوًا: تکبر کرنا۔

ذُو: صاحب مالک۔ تشبیہ ذُوَانٌ جِ ذُوُوُنٌ: (اس کا اعراب اسمائے ست مکبرہ کا اعراب ہے) کہا جاتا ہے "وَجَدْتُهُ ذَا صَبَاحٍ" میں نے اس کو صبح کے وقت پایا اور "جَاءَ مِنْ ذِي نَفْسِهِ" وہ فرمانبرداری کی حالت میں آیا اور فقہاء کے قول "ذُو الْيَدِ أَحَقُّ" کا مطلب یہ ہے کہ قبضہ کرنے والا زیادہ حق دار ہے۔ "وَكَمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ ذِي قَبْلِ" یعنی یہ گزشتہ زمانہ میں تھا۔ ذُوُوا الْأَرْحَامِ: رشتہ دار۔ اقربا۔ الذُّوُونُ وَالْأَذْوَاءُ: یمن کے بادشاہ جن کے نام لفظ ذو سے شروع ہوتے ہیں۔ جیسے ذُوَيْرِ بْنِ ذُوْنُوَاسٍ. ذُوْرِيَاشُ: وغیرہ۔ ذَاتٌ: ذُو: کاموث۔ تشبیہ ذَوَاتَانِ. جِ ذَوَاتٌ: اس کا اور اس کے تشبیہ اور جمع کا اعراب انہی جیسے مشابہ کلمات کا اعراب جیسا ہوتا ہے (کہا جاتا ہے "لَقَبْتُهُ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ أَوْ ذَاتَ مَرَّةٍ" میں نے اس سے کسی دن یا کسی رات یا کسی دفعہ ملاقات کی۔ "وَمَا كَانَ ذَلِكَ ذَاتَ الْعَوِيْمِ" یہ گزشتہ سال

تھا۔" جَلَسَ ذَاتَ الْيَمِينِ" وہ دائیں جانب بیٹھا۔ "وَلَقَبْتُهُ أَوْلَ ذَاتِ يَدَيْنِ" میں سب سے پہلے اس سے ملا۔ ذَاتُ الصَّدْرِ: گھر یا بھید۔ ذَاتُ الْيَمِينِ: دائیں جانب۔ ذَاتُ الْبَيْنِ: حال۔ کہا جاتا ہے "أَضْلَحُوا ذَاتَ بَيْنِنَا" تم لوگ اپنی اس حالت کو درست کرو جس پر اتفاق کر سکتے ہو۔ ذَاتُ شَفَاةٍ: کلمہ۔ کہا جاتا ہے "كَلَّمْتُهُ فَمَا زِدَّ عَلَيَّ ذَاتَ شَفَاةٍ" میں نے اس سے گفتگو کی اس نے جواب میں ایک کلمہ بھی نہیں کہا۔ ذَاتُ الْيَدِ: ملکیت۔ کہا جاتا ہے "قَلَّتْ ذَاتُ يَدِهِ" اس کی ملکیت کم ہو گئی اور کہا جاتا ہے "أَلْقَتْ الدَّجَاجَةَ ذَاتَ بَطْنِهَا" یعنی مرغی نے انڈا دیا یا بیٹ کی۔ ذَاتُ السَّجَبِ عِنْدَ الْأَطْيَاءِ: نمونیا۔ ذَاتُ الرِّيَّةِ وَذَاتُ الصَّدْرِ وَذَاتُ الْكَبِدِ: بیماریوں کے نام۔

الذَّاتُ: وہ چیز جو جانے یا خبر دینے کے قابل ہو۔ ذَاتُ الشَّيْءِ: نفس شئی. عین شئی. جوہر شئی. اِسْمُ الشَّيْءِ. عِنْدَ النَّحَاةِ: نحویوں کے نزدیک اسم ذات وہ ہے جو کسی ذات سے تعلق رکھتا ہو۔ جیسے مرد۔ شیر وغیرہ اور اس کے مقابلہ میں اسم معنی ہے جیسے علم شجاعت، سخاوت وغیرہ۔ الذُّوَاتُ عِنْدَ الْمُؤَلِّدِينَ: قوم کے بڑے لوگ۔

الذَّاتِي: ذات کی جانب منسوب۔ ذَابٌ (ن) ذَوَانًا وَذَوَانًا. الفَّلَجُ أَوْ السَّمْنُ: برف یا گھی پگھلنا۔ دَمَعَةُ: آنسو بہنا۔ السَّمْسُ: آفتاب کا گرم و تیز ہونا۔ السَّرْجُلُ: عقل مندی کے بعد بے وقوف ہونا۔ شہد کھانے پر دامت کرنا۔ کہا جاتا ہے "ذَابَ لِيْ عَلَيْهِ حَقٌّ" میرا حق اس پر ثابت ہوا "مَا ذَابَ فِيْ يَدِي مِنْهُ خَيْرٌ" مجھ کو اس سے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ "وَذَابَ جِسْمُ الرَّجُلِ" لاغر ہو گیا۔ ذَوْبٌ. السَّمْنُ: گھی پگھلنا۔ الغَلَامُ: لڑکے کے گیسو بنانا۔ أَذَابَ إِذَابَةً. السَّمْنُ: گھی پگھلنا۔

حَاجَتُهُ: حاجت پوری کرنا۔ السَّقُومُ أَمْرُهُمْ: درست کرنا۔ عَلَى الْعَدُوِّ: دشمن پر لوٹ ڈالنا۔

اِسْتَذَابَهُ: پگھلانے کو کہنا۔ شہد مانگنا۔ الشَّيْءُ: باقی رکھنا۔ حَاجَتُهُ: پوری کرنا۔ الذَّابُ: عیب۔

الذُّوْبُ: بھس۔ خالص شہد۔ ذَوْبٌ الذَّهَبُ: سونے کا پانی یا پگھلا ہوا سونا اور کہا جاتا ہے "هَذَا الْكَلَامُ ذَوْبُ الرُّوحِ" یہ کلام روح کو پگھلانے والا ہے۔

الذُّوْبَةُ: ذَابٌ: کا اسم مرہ۔ کہا جاتا ہے "ظَهَرَتْ مِنْهُ ذُوْبَةٌ" اس سے حماقت ظاہر ہوئی۔ مال کا بقیہ جس کو انسان باقی رکھے۔ نَاقَةٌ (ذَوُوْبٌ): موٹی اونٹنی۔

الذُّوَابُ وَالْأَذْوَابُ: مکھن جو ہانڈی میں گھی حاصل کرنے کے لئے پگھلا یا جائے۔ کہا جاتا ہے "هُوَ أُخْلِي مِنَ الذُّوْبِ بِالْأَذْوَابِ" وہ خالص شہد جو خالص مکھن کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ اس سے زیادہ بیٹھا ہے۔

الذُّوْبُ: سونا وغیرہ پگھلانے کی کٹھالی۔ الذُّوْبَةُ: چمچ۔

ذَاجٌ (ن) ذُوْجًا: جلدی کرنا۔ المَاءُ: پانی پینا۔ ذَاخٌ (ن) ذُوْخًا: چال چلنا۔

(.....) وَذُوْخٌ: الاِبْسَلُ: اونٹوں کو متفرق و پراگندہ کرنا

ذَاذَةٌ (ن) ذُوْذًا وَذِيْذًا: دفع کرنا۔ ہٹانا۔ دحکارنا کہا جاتا ہے "ذَاذَ الْإِبْسَلِ عَنِ الْمَاءِ"

اس نے اونٹوں کو پانی سے ہٹا دیا (.....) وَذُوْدٌ عَنِ حَبِيْبِهِ: بچانا۔ حمایت کرنا۔ صفت (ذَائِدٌ) جِ ذُوْدُو ذُوْادُو ذَاذَةٌ.

أَذَاذَةٌ وَأَذُوْدَةٌ إِفْوَادًا: ہٹانے میں مدد دینا۔ الذُّوَادُ: بہت دفع کرنے والا۔

المَذَادُ: چراگاہ۔

الذُّوْدُ: مویشیوں کا تھان جس سے کسی چیز کو ہٹایا جائے۔ بیل کا سینگ۔ زبان۔

رِجَالٌ (مُذَاوِدٌ وَمُذَاوِيْدٌ): قابل نگہداشت چیزوں کی حمایت کرنے والے لوگ۔

الذَّوْقُ: ذوق جن کی تعداد تین سے لے کر تیس (۳۰) تک۔ مَوْنُث کے لئے اس کا واحد کوئی نہیں یا یہ خود واحد ہے اس کی جمع ازواج ہے۔

ذَاطَةُ (ن) ذَوْطًا: سخت گلا گھوٹنا۔

الْإِنَاءُ: بھرتا۔

ذَوْطٌ (س) ذَوْطًا: چھوٹی چھوٹی ٹھوسڑی والا ہونا۔ صفت (أذْوَطٌ)

الذَّوْطَةُ: زرور پیٹھ والی ٹکڑی۔ جِذْوَطًا۔

الذَّوْطُ: ادنیٰ درجہ کے لوگ۔

ذَاعَ (ن) ذَوْعًا: مَالَةً: سب کچھ پراگندہ کر دینا۔

أَذَاعَ إِذَاعَةً: الْقَوْمُ بِمَا فِي الْحَوْضِ: قوم کا سارا پانی پینا..... الرَّجُلُ بِمَالِهِ: لے جانا۔

ذَاقَ (ن) ذَوْقًا: كَشَاهِدًا: مَرَّ كَهْتَمَةً: ہونے چلنا۔

ذَاقَ (ن) ذَوْقًا وَذَوْاقًا وَمَذَاقًا الشَّيْءَ: چکھنا..... الْعَذَابُ: عَذَابُ بَرْدٍ: آگ

کرنے..... الرَّجُلُ وَمَا عِنْدَ الرَّجُلِ: آزمائش کرنا۔ کہا جاتا ہے "مذاق ذواق"

اس نے کچھ نہیں چکھا۔

تَدَوَّقَ الشَّيْءَ: تَهَوَّرَ: تَهَوَّرَ: چکھنا۔

تَذَوَّقَ الشَّيْءَ: چکھنا: کہا جاتا ہے

إِنْتَذَرُوا قَوَامَ الرِّمَاحِ: انہوں نے نیزوں کو سنبھالا۔

إِسْتَذَاقَهُ: آزماتش کرنا۔ تجربہ کرنا۔ لے

الْأَمْرُ: آسانی سے حاصل ہونا۔ اسی سے ہے

"لَا يَسْتَلْذِيقُنِي لِسِي الشَّعْرِ إِلَّا فِي فَلَانٍ"

میرے لئے شعر کی آمد نہیں ہوتی مگر فلاں

کے حق میں۔

الذَّوْقُ وَالذَّائِقَةُ: چکھنے کی قوت۔

الذَّوْقُ وَالذَّوْقُ: طبیعت۔ کہا جاتا ہے

"هُوَ حَسَنُ الذَّوْقِ لِلشَّعْرِ: اس کی طبیعت شعر

کینے زیادہ موزوں ہے الذَّوْقُ: مزہ۔ کہا جاتا

ہے "ذَوَاقُهُ طَيِّبٌ" اس کا مزہ اچھا ہے۔

الْمَذَاقُ: مزہ۔ کہا جاتا ہے "مَذَاقُهُ طَيِّبٌ"

اس کا مزہ اچھا ہے۔ "وَهُوَ مَرُّ الْمَذَاقِ" وہ

کڑوے مزہ کا ہے۔

ذَوِي (ض) وَذَوِي (س) ذَوِيًا۔

النَّبَاتُ: نباتات کا پڑ مردہ ہونا۔

أَذَوِي أَذْوَاءً: پڑ مردہ کرنا۔

الذَّوْحَى: بکری کے چھوٹے بیٹے۔

الذَّوَاةُ: خر بوزہ یا انگور وغیرہ کا چھلکا۔

اسم اشارہ مَوْنُث ہے قریب کے لئے۔

ذَيْتٌ ذَيْتٌ أَوْ ذَيْتٌ وَذَيْتٌ: بات چیت یا

فعل کے لئے کنایہ ہے جیسے "فَعَلْتُ لَهُ ذَيْتٌ"

ذَيْتٌ" میں نے اس سے ایسا ایسا کہا۔

و"فَعَلْتُ ذَيْتٌ ذَيْتٌ" میں نے ایسا ایسا کیا

اور اسی کے مانند (ذَيْتًا وَذَيْتًا وَذَيْتَةً ذَيْتَةً) ہیں۔

ذَاجٌ (ض) ذَيْتًا: الصَّاءُ: پانی پینا۔

ذَابِحَةٌ مَذَابِحَةٌ: کسی کے ساتھ ہو کر پینا۔

ذَيْتٌ: النَّخْلَةُ: گلاب کا پھول۔

أَذَاخٌ إِذَاخَةٌ: بِالْمَكْمَانِ: گردا گرد گھومنا.....

بنی فلان: ذلیل کرنا۔

الذَّبِيخُ: دیر بھیر یا زیادہ بالوں والا۔ زربجہ۔

مَوْنُثٌ ذَبِيخَةٌ: عمدہ گھوڑا۔ تَلْمِزٌ: ایک سرخ رنگ

کا ستارہ۔ جِذَابِيخٌ وَذَبِيخٌ: وَذَبِيخَةٌ.

ذَارَةٌ يَذَارُهُ ذَيْرًا: ناپسند کرنا۔

الذَّبِيوَةُ: مٹی ملا ہوا گوبر۔

ذَاعَ (ض) ذَيْعًا وَذَيْوَعًا وَذَيْوَعَةً

وَذَيْعَانًا: النَّخِيرُ: پھیلنا اور کہا جاتا ہے "ذَاعَ فِي

جِلْدِهِ النَّخِيرُ" اس کے جسم میں گھلی پھیل گئی۔

أَذَاعَ إِذَاعَةً: النَّخِيرُ: پھیلنا.....

الْبَسْرُ بِالْبَسْرِ: ظاہر کرنا..... الْقَوْمُ مَا فِي

الْحَوْضِ أَوْ بِمَا فِيهِ: سارا پانی لینا.....

بِالشَّيْءِ: لے جانا۔

إِنْدَاعُ النَّخِيرِ: پھیلنا۔

الْمِذْيَاعُ: راز کی حفاظت نہ کرنے والا۔ جِ

مِذْيَاعٌ: تَمَّ كَيْتُهُ: "فَلَانٌ لِلْأَسْرَارِ"

مِذْيَاعٌ وَلِلْأَسْبَابِ مِضْيَاعٌ: فلاں بھیدوں

کو بہت ظاہر کرنے والا اور اسباب کو بہت

ضائع کرنے والا ہے۔

الذَّبْيَانُ وَالذَّبْيَانُ: مہلک زہر۔

ذَالٌ (ض) ذَيْلًا: النَّوْبُ: کپڑے کا لمبا

ہونا۔ دامن دار ہونا..... الطَّائِرُ: پرندہ کا ڈم

کو کھینچنا یا پھیلانا..... النَّسَاقَةُ يَذْبِيهَا: اُوٹنی کا

رانوں پر ادھر ادھر مارنا..... السَّجَارِيَةُ: لڑکی

کا دامن کھینچنے ہوئے ناز سے چلنا..... الشَّيْءُ

: ادنیٰ ہونا۔ خَالَهُ: پست و فروتر ہونا..... فَلَانٌ

إِلَى فَلَانٍ: گستاخی کرنا۔

ذَيْلٌ. النَّوْبُ: کپڑے کا لمبا کرنا۔ الْكِتَابُ:

کتاب کے آخر میں کچھ بڑھانا۔

أَذَالَ إِذَالَةً وَأَذَيْلٌ إِذْيَالًا: النَّوْبُ: دامن

والا ہونا..... الرَّجُلُ فَوَيْدُهُ: کپڑے کا دامن

بنانا۔ دامن لمبا کرنا۔ مَالَهُ: خرچ کرنا.....

إِهَانَتُ كَرْنَا..... فَهْرَسَهُ وَغَلَامَهُ: لاپرواہی کی

وجہ سے دہلا کرنا۔

..... الْمَرْأَةُ قَبَاعَهَا: عورت کا برقع کو لٹکانا۔

..... الدَّمْعُ: آنسو بہانا۔

تَذَيْلٌ. فِي الْكَلَامِ: گستاخی کرنا۔ النَّجَارِيَةُ:

لڑکی کا دامن کھینچنے ہوئے ناز سے چلنا.....

الْقَرَسُ فِي إِسْتِنَابِهِ: گھوڑے کا دوڑنے میں

خوشی سے دم ہلانا۔

تَذَائِلُ: خَالَهُ: پست و فروتر ہونا۔

الذَّيْلُ: چیز کا آخری حصہ۔ ذَيْلُ النَّوْبِ: دامن۔

ذَيْلُ الرِّيحِ: ریت پر ہوا کے نشانات۔

ذَيْلُ الْقَرَسِ: ذم یا ذم کا لٹکا ہوا حصہ۔ کہا

جاتا ہے: "هُوَ لَيْ ذَيْلُ ذَائِلٍ" وہ بڑی

سخت ذلت میں ہے۔ جِذَائِلٌ وَذَيْوَالٌ

وَذَيْلٌ.

أَذْيَالُ النَّاسِ وَذَيْوَالُهُمْ: آخر کے لوگ۔

السَّذَائِلُ: فَا۔ دامن دار۔ ذَرْعُ ذَائِلٍ

أَوْ ذَائِلَةٌ: لے دامن والی زرہ۔ کہا جاتا ہے

"طَالُ ذَيْلُهُ" یعنی اس کا حال اچھا ہو گیا اور

مال بڑھ گیا۔ نَوْبٌ (مَذَالٌ أَوْ مَذْيَلٌ): لے

دامن کا کپڑا۔

السَّذَالَةُ: باندی۔ لوندی اور مثل ہے "أَخْيَلُ

مِنْ مَذَالَةٍ" باندی سے زیادہ منکسر۔ اس لئے

کہ اس کی اہانت کی جاتی ہے اور وہ اپنی

حماقت سے ناز و انداز سے چلتی ہے۔ ذَرْعُ

مَذَالَةٍ: لمبی زرہ۔

أَرْضٌ (مَعْتَبِلَةٌ): زمین جس پر لگی سی بارش ہو۔


الْمِذْيَالُ: لے دامن والا (مذکر و مؤنث)

ذَامَةٌ (ض) ذَيْسًا وَذَامًا: عیب لگانا۔

مَدَمْتُ كَرْنَا: صفت (مَذْيَمٌ وَمَذْيُومٌ)

الذَّمَامُ وَالذَّمِيمُ: عیب۔ مذمت۔

الذَّمِينُ: عیب۔



ر: السراء: بنیادی حروف میں سے دسواں ہے۔

زَاب (ف) زَابَا. الصَّدْعُ: پھنچن درست کرنا۔ مرمت کرنا..... الشئ: جمع کر کے نرم پانڈھنا..... نَبْنَهُمْ: صلح کرانا۔

زَأْبِتِ الْأَرْضُ: سبزی کاٹ لینے کے بعد سرسبز ہونا۔

أَزَابَ إِزَابًا. الصَّدْعُ: پھنچن درست کرنا۔ پیوند کرنا۔

السَّرَابُ: مص - پھنچن - شگاف - سردار - سج - رَسَاب. کہا جاتا ہے "كفسي بفلان زأبا لايمرك" فلاں تمہارے امر کو درست کرنے والا کافی ہے۔ (اس جملہ میں مصدر بمعنی اسم فاعل ہے)

السُّوْبَةُ: مگڑی وغیرہ کا ٹکڑا جس سے کسی چیز کو درست کیا جائے۔ سوراخ بند کرنے کی چیز۔ گاڑھا دودھ۔ رات کا گزرا ہوا وقت۔ حاجت۔ سج رِقَاب و رُوْبَات. کہا جاتا ہے "هُوَ رِقَاب بَنِي فُلَانٍ" وہ بنو فلاں کے امور کا درست کرنے والا ہے۔

السَّرَابُ: کاروں، موٹرسائیکلوں وغیرہ کو درست کرنے کی جگہ (آٹو مکینک کی ورکشاپ)۔

الرَّأْبُ وَالْمِرَابُ: درست کرنے والا۔

رَأْسُ رَأْسَلَةٍ: ایک جانب کو جھکتے ہوئے چلنا گویا کہ نکتے پیر چلنے کی وجہ سے تکلیف ہے۔

تَرَأْسِلُ الْقَوْمَ: چور بننا..... عَلَيْهِ: لوٹ ڈالنا۔

الرَّيَالُ وَالرَّيِيَالُ: شیر۔ بھیڑیا۔ سج رَأْبِل و رَأْبِيل و رَأْبَلَةٌ و رَأْبِيلُ. الرِّيَالُ: اکلوتا لڑکا۔

الرَّيِيْحُ: صنوبر کا گوند۔ رُوْدٌ (ك) رُوْدُوَةٌ. الغُصْنُ: ٹہنی کا تراور بہت نازک ہوتا۔ صفت (رُوْد)

تَرَأَدْتُ. الرِّيْحُ: ہوا کا ادھر اُدھر چلنا۔ تَرَأَدُ السَّرَجُلُ: اٹھنے میں کانٹا..... وَاِرْتَأَدُ الغُلَامُ: خوش عیشی کی وجہ سے لڑکے کے بدن کا تھلکنا..... الغُصْنُ: جھلکا..... الغُنْقُ: گردن کا پیچیدہ ہونا (تَرَأَدُو و تَرَاءَد) الضَّحَى: روشنی پھیلنا۔ دن چڑھنا۔

رَأَدُو رَأْبِد. الضَّحَى: آفتاب چڑھنے اور روشنی پھیلنے کا وقت۔ و السَّرَادُ: کان کے نیچے جڑے کی اُبھری ہوئی جڑ۔

الرَّادِيُولَا: باریک کپڑے کی قسم سے ایک پودا۔ الرِّئِدُ: ہم عمر۔ کہا جاتا ہے "هَذَا رَيْدِي" یہ میرا ہم عمر ہے۔ درخت کا پودہ۔ سج آرَاد.

الرَّادُ وَالرَّادَةُ وَالرُّوْدُ وَالرُّوْدَةُ: خوبصورت نوجوان عورت۔ السَّرُوْدُ: نرمی سہولت۔ کان کے نیچے جڑے کی اُبھری ہوئی جڑ۔

رَأْرَأُ: پٹلی پھرانا۔ تیز دیکھنا۔ رَأْرَأُ عَيْنَيْهِ: آنکھیں پھرانا۔ صفت مذکر (رَأْرَأُ): صفت مؤنث رَأْرَأَةٌ و رَأْرَأَةٌ و رَأْرَأَةٌ..... الظَّنَاءُ: ہر نیوں کا دم ہلانا..... السَّرْحَابُ

او السَّرَابُ: بادل یا سراب کا چمکنا..... السَّرَجُلُ: پڑھنے یا بولنے میں حرف را زیادہ

بولنا۔

رُوْسٌ رِيُوْسٌ رِنَاسَةٌ: رئیس ہونا۔

رَأْسٌ (ض) رِنَاسَةٌ. الْقَوْمُ: سردار قوم ہونا (رَأْسُهُ (ف) رَأْسًا): سر پر زخم پہنچانا.....

السَّيْلُ الغُشَاءُ: سیلاب کا کوڑا کرکٹ جمع کرنا۔

رَيْسٌ: درو سردار ہونا۔

رَأْسَةٌ: سردار بنانا۔

تَرَأَسَ وَاِرْتَأَسَ: سردار ہونا۔

إِرْتَأَسَهُ: گردن پکڑ کر زمین میں جھکا دینا۔

إِرْتَأَسَ الشَّيْءُ: کسی چیز کے سرے پر سوار ہونا۔

السَّرَاسُ: سر۔ سج أَرُوْسٌ و رُوُوْسٌ و رُوُوْسٌ و رَأْسُ: اس کا اطلاق ہر ذی روح کے لئے ہوتا ہے اور اکثر جانوروں کے لئے جیسے

أَرْبَعُونَ رَأْسًا مِّنَ الغَنَمِ. الوَاسُ: چیز کی چوٹی۔ سردار قوم۔ رَأْسُ الشَّهْرِ: اوالقام: مہینے یا سال کا پہلا دن اور کہا جاتا ہے "فَعَلَهُ رَأْسًا" اس نے اس کام کو ابتداء کیا۔ و"وَلَدَتْ فَلَائِقَةٌ رَأْسًا عَلِيًّا رَأْسُ: اس عورت نے یکے

بعد دیگرے تین بچے جنے۔ و"رِيْمِيْسَتْ مِسْكٌ فِي الرِّمَاسِ" تیری رائے میرے حق میں ایسی بُری ہے کہ تو میری طرف دیکھتا بھی نہیں۔ و"هَذَا قِسْمٌ بِرَأْسِهِ: یہ مستقل ایک

قسم ہے۔" وَاَنْتَ عَلِيٌّ رَأْسُ أَمْرِكُ" تو اپنے کام کے سرے پر ہے۔

رِيَاسٌ. السَّيْفُ: تلوار کا قبضہ۔

كُيَا جَا تَا سَ: اَنْتَ عَلِيٌّ رِنَاسُ أَمْرِكُ: تو اپنے کام کے سرے پر ہے۔

الرئيس: قاصد حاکم۔ ج رؤاس۔
 الرئيس والرئيس: سردار قوم۔ چودھری۔
 ج رؤساء۔
 الرئيس: محکم سرداری والا۔
 الرؤاس: دادیوں کی بلندیاں۔ اگلے
 بادل۔ واحد رئيسة۔
 الرؤاس: سر کی بیچنے والا۔
 الاراس: بڑے سردار۔ مؤنث راساء۔
 الرؤاسی: بڑے سردار۔
 الجرأس: من الخيل: وہ گھوڑا جو گھڑ دوڑ
 میں دوسرے گھوڑوں کے سر کو کاٹے۔ گھڑ
 دوڑ میں آگے بڑھنے والا۔
 المرأس: جنگ سے جی چرانے والا۔
 المرؤوس: رعیت محکوم۔ بڑے سردار
 (والرئيس): وہ شخص جس کے سر میں زخم
 لگا ہو۔
 زَأَفَ (ف) زَأَفَةٌ وَرَوُفٌ وَرَأْفَةٌ
 وَرَيْفٌ: (س) رَأْفًا وَتَرَأَفٌ۔ بہ: بہت
 مہربانی کرنا۔ صفت (رَوُوفٌ وَرَوُفٌ
 وَرَأْفٌ وَرَيْفٌ وَرَأْفٌ)
 تَرَأَفَ فُلَانٌ: آپس میں مہربانی کرنا۔
 رَأْفَةٌ وَاسْتِرَأْفَةٌ: مہربان بنانا۔ مہربانی کرنے
 پر برا بھینچنے کرنا۔
 الرَأْفُ: شراب۔
 اسْتِرَأَلَ: الرَأْلُ: شتر مرغ کے بچے کا قوی و
 مضبوط ہونا۔ النبأ: نبی ہونا۔
 الرأل: شتر مرغ کا بچہ۔ مؤنث رألة۔ ج
 رنال وأرؤل ورنلان۔ رسالة: کہا جاتا ہے
 "خود رألة" یعنی وہ گھبرا گیا۔
 الرؤال: گھوڑے کے منہ کی جھاگ۔
 الرأيل والرؤول: دانتوں کے نیچے زائد
 نکلا ہوا دانت۔ نعامة (مؤنث): بچے والی
 مادہ شتر مرغ۔
 المرأيل: جلدی کرنے والا۔
 رَأَمَ (ف) رَأْمًا: الخيل: مضبوط بننا۔
 القدح: درست کرنا۔ مرمت کرنا۔
 زَمَمَ (س) زَأْمًا وَرَمَمَانًا: الجرح: زخم کا

انگور بندھنا۔۔۔۔۔ الشئ: محبت کرنا۔ الفت کرنا
 الساقفة ولذها: مہربان ہونا۔ صفت
 (رَأَيْتُمْ وَرَأَيْتُمْ رَوُومٌ) ج رَوَائِم: کہتے ہیں
 "هُوَ رَوُومٌ لِلضَّمِّ" وہ ذلیل ہے۔ ذلت پر
 راضی ہو جانے والا۔
 أَرَامَ إِزَامًا: الجرح: زخم کو علاج کر کے اچھا
 کرنا۔۔۔۔۔ الخيل: رتی کو مضبوط بننا۔
 ه عُلَى الأَمْرُ: مجبور کرنا۔۔۔۔۔ الساقفة: اونٹنی
 کو دوسرے کے بچے پر مہربان بنانا۔
 تَرَأَمَةً: وَتَرَأَمَ عَلَيْهِ: مہربان ہونا۔
 الرأئم: سفید ہرن۔ ج أَرَامٌ وَأَرَامٌ: مؤنث
 رَمَمَةٌ۔
 الرؤام: لعاب۔
 الرؤايم: دیگ دان کے پائے۔
 رَأَى يَرَى رَأْيًا وَرُؤْيَةً وَرَأْفَةً: وَرَأْيَانًا:
 بصارت یا بصیرت سے دیکھنا۔ يَرَى کی اصل
 يَرَى ہے اور اصل کا استعمال نادر ہی ہوتا
 ہے۔ اور امر کا میسر ہے۔ کہا جاتا ہے "تسا
 تَرَى وَيَا هَلْ تَرَى" یعنی اے شخص کیا تو گمان
 کرتا ہے؟ اور مضارع کا صیغہ گمان کے معنی
 میں جمہول ہی بنا گیا ہے۔
 رَأَى: الشئ: دیکھنا۔
 رَأَى (ف) رَأْيًا: الرَجُلُ: پیچھڑے پر
 مارنا۔۔۔۔۔ الزند: چتاق سے آگ نکالنا۔
 الزند: آگ لگانا۔۔۔۔۔ الرأية: جھنڈا
 گاڑنا۔
 رَأَيْتَهُ تَرِيَةً: خلاف حقیقت دکھانا۔
 رَأَى يَرَى مَرَأَةً: ورثاء: خلاف حقیقت
 دکھانا۔ وَرَأَيْتَهُ مَرَأَةً: ہا ہم مشورہ کرنا۔
 أَرَأَى إِثْنَاءً: عقل ورانے والا ہونا۔ چہرے
 میں حماقت ظاہر ہونا۔ آئینہ میں دیکھنا۔
 دکھاوے کے لئے کام کرنا۔ پیچھڑے کے
 درد والا ہونا۔ بہت خوش منظر ہونا۔ دیکھنے
 کے وقت پلکوں کو ہلانا۔۔۔۔۔ الرأية: جھنڈا
 گاڑنا۔۔۔۔۔ الخامل من غير ذوات الحافير
 والتسبع: جھن سے حاملہ معلوم ہونا۔ صفت
 (مُرءٌ وَمُرِيَةٌ)

أَرَاهُ يُرِيهِ إِزَاءَةً وَإِزَاءَةً الشئ: دکھانا۔
 صفت مذکر (مُرِيٌّ): صفت مؤنث مُرِيَّةٌ کہا
 جاتا ہے "أَرِنِي بِرَأْيِكَ" مجھے مشورہ دو۔
 و"أَرَى اللَّهُ فُلَانًا" اللہ تعالیٰ فلاں کو عذاب
 دیں اور اس کے دشمن کو وہ دکھلائیں جس پر وہ
 خوش ہو۔
 تَرَأَى وَتَرَاءَى: فِي الجِرَاءَةِ: آئینہ میں
 دیکھنا۔ تَرَأَى وَتَرَاءَى لَهُ: دیکھنے کے
 درپے ہونا۔ وَتَرَاءَى النَّاسُ: ایک
 دوسرے کو دیکھنا اور کہا جاتا ہے "تَرَاءَى فُلَانٌ فِي
 الأَمْرِ" ہم نے معاملہ میں غور کیا۔ "وَتَرَأَى
 بِرَأْيِ فُلَانٍ": وہ فلاں کا ہم خیال ہو گیا۔
 "وَتَرَاءَى لِي أَنِ الأَمْرُ كَيْفَ كَيْفَتٌ"
 میرے لئے یہ ظاہر ہو گیا کہ معاملہ ایسا ہے۔
 "وَتَرَأَيْنَا الْهَلَالَ": ہم نے چاند دیکھنے کی
 کوشش کی۔
 إِزْتَأَى: الأَمْرُ: غور کرنا۔ شک کرنا۔ سوچنا۔
 اسْتَرَأَى: ه: دیدار چاہنا۔ رائے طلب کرنا۔
 کہا جاتا ہے "اسْتَرَأَيْتُهُ وَاسْتَرَأَيْتُهُ"
 اسْتَرَأَى بِالرَأْيَةِ: آئینہ سے دیکھنا۔
 الرأى: رائے۔ اعتقاد۔ تم کہتے ہو "رَأْيِي
 كَذَا" میرا اعتقاد ایسا ہے۔ تدبیر کی رسائی۔
 ج أَرَاءٌ وَأَرَاءٌ۔
 الرئى والرئى والرؤاء والرئى: منظر اور حسن
 منظر۔
 الرؤيا: خواب ج رؤى کہا جاتا ہے "جساءة
 جينَ جُنْ رُؤيًا اور آيا" وہ اس وقت آیا جبکہ
 تار کی خوب ہوگی۔
 الرؤية: آنکھ یا دل سے دیکھنا۔ ج رؤى۔
 الرئية: دیکھنا۔
 الرئاء: مصص۔ حقیقت کے خلاف دکھاوا۔ کہا
 جاتا ہے "فَعَلَّ ذَلِكْ رِئَاءً" اس نے اس کو
 نمود اور دکھاوے کے لئے کیا اور کہا جاتا ہے
 "هَمَّ رِئَاءُ أَلْفٍ" وہ لوگ دیکھنے میں تقریباً
 ہزار ہیں۔ "وَقَوْمٌ رِئَاءٌ" ایک دوسرے کے
 مقابل قوم۔ "ذُو رِئَاءٍ رِئَاءٌ": ہمارے گھر
 ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔

الرَّؤْيَةُ: منظر یا حسن منظر۔
الرَّؤَاءُ: بہت دیکھنے والا۔

الرَّوْنَةُ: پیچھپوڑا۔ رَج رَوَاتٌ وَرَوْنٌ اور رَسَبَتْ
کے لئے (رَوِيٌّ)

رَوِيٌّ: القوم: قوم کا سردار جس کی رائے سے
سب اتفاق کریں۔ الرَوِيُّ: بڑا سانپ۔ کپڑا
جو خریدار کے سامنے پھیلا یا جائے۔ هُوَ
(أَرَاهِي) بگڈا: وہ اس کے لائق ہے۔

الرَّوْمَةُ: آئینہ۔ رَج مَرَاةٌ وَمَرَاةٌ: اس سے
فعل کا اشتقاق کرتے ہیں جیسے "تَمَرَّتْ أَيْ
یعنی وہ آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھ رہا ہے (اس کو
سیویہ نے بیان کیا ہے)

الرَّوْمِيُّ: عارف باللہ۔ عالم۔
الرَّوْبَانِيُّ: ملاحوں کا چیٹر مین۔

الرَّوْمَةُ: رب کا مَوْنٌ۔ دیوی۔ مالکہ۔ بڑا
گھر۔
الرَّوْمَةُ: بڑی جماعت۔ ایک قسم کا درخت۔ رَج
أَرْبَةٌ وَرَبَابٌ۔

الرَّوْمَةُ: پھلوں کے رس کو پکا کر گاڑھا کیا ہوا
شیرہ۔ رَج رِبَابٌ وَرَبَابٌ۔
رَبٌّ وَرَبَّةٌ وَرَبْمَا وَرَبْتَمَا: حرف جر ہے
حسب سیاق کلام تکثیر و تظہیر کا فائدہ دیتا ہے
اور کمرہ پر داخل ہوتا ہے اور زائد کے حکم میں
ہوتا ہے اور کمرہ کے لئے شرط ہے کہ موصوف
ہو اور جب اس کے آخر میں "ما" لائق ہوتا
ہے تو عمل نہیں کرتا اور اس صورت میں فعل
اور معرفہ پر بھی داخل ہوتا ہے جیسے "رَبْمَا
السَّخِيلِ مُقْبِلٌ وَرَبْمَا أَقْبَلَ السَّخِيلِ" اور
کبھی اس صورت میں بھی عمل کرتا ہے جیسے
"رَبْمَا ضَرْبَةٌ بِسَيْفٍ صَقِيلٍ"

الرَّوْمَةُ: رَج رِبَابٌ وَرَبَابٌ۔
الرَّوْمَةُ: سوتیل پاپ۔
الرَّوْمَةُ: سوتیلی ماں۔
الرَّوْمَةُ: بہت پانی۔ بیٹھا پانی۔
الرَّوْمَةُ: سارنگی کی مانند ایک جگہ۔ سفید
بادل۔ واحد (رَبَابَةٌ)

الرَّوْمَةُ: سوتیل پاپ۔
الرَّوْمَةُ: سوتیلی ماں۔
الرَّوْمَةُ: بہت پانی۔ بیٹھا پانی۔
الرَّوْمَةُ: سارنگی کی مانند ایک جگہ۔ سفید
بادل۔ واحد (رَبَابَةٌ)

الرَّوْمَةُ: سوتیل پاپ۔
الرَّوْمَةُ: سوتیلی ماں۔
الرَّوْمَةُ: بہت پانی۔ بیٹھا پانی۔
الرَّوْمَةُ: سارنگی کی مانند ایک جگہ۔ سفید
بادل۔ واحد (رَبَابَةٌ)

الرَّوْمَةُ: سوتیل پاپ۔
الرَّوْمَةُ: سوتیلی ماں۔
الرَّوْمَةُ: بہت پانی۔ بیٹھا پانی۔
الرَّوْمَةُ: سارنگی کی مانند ایک جگہ۔ سفید
بادل۔ واحد (رَبَابَةٌ)

الرَّوْمَةُ: سوتیل پاپ۔
الرَّوْمَةُ: سوتیلی ماں۔
الرَّوْمَةُ: بہت پانی۔ بیٹھا پانی۔
الرَّوْمَةُ: سارنگی کی مانند ایک جگہ۔ سفید
بادل۔ واحد (رَبَابَةٌ)

الرَّوْمَةُ: سوتیل پاپ۔
الرَّوْمَةُ: سوتیلی ماں۔
الرَّوْمَةُ: بہت پانی۔ بیٹھا پانی۔
الرَّوْمَةُ: سارنگی کی مانند ایک جگہ۔ سفید
بادل۔ واحد (رَبَابَةٌ)

الرَّوْمَةُ: سوتیل پاپ۔
الرَّوْمَةُ: سوتیلی ماں۔
الرَّوْمَةُ: بہت پانی۔ بیٹھا پانی۔
الرَّوْمَةُ: سارنگی کی مانند ایک جگہ۔ سفید
بادل۔ واحد (رَبَابَةٌ)

الرَّوْمَةُ: سوتیل پاپ۔
الرَّوْمَةُ: سوتیلی ماں۔
الرَّوْمَةُ: بہت پانی۔ بیٹھا پانی۔
الرَّوْمَةُ: سارنگی کی مانند ایک جگہ۔ سفید
بادل۔ واحد (رَبَابَةٌ)

رَبَابَةٌ: منظر یا حسن منظر۔
الرَّوْمَةُ: بہت دیکھنے والا۔

الرَّوْمَةُ: پیچھپوڑا۔ رَج رَوَاتٌ وَرَوْنٌ اور رَسَبَتْ
کے لئے (رَوِيٌّ)

رَوِيٌّ: القوم: قوم کا سردار جس کی رائے سے
سب اتفاق کریں۔ الرَوِيُّ: بڑا سانپ۔ کپڑا
جو خریدار کے سامنے پھیلا یا جائے۔ هُوَ
(أَرَاهِي) بگڈا: وہ اس کے لائق ہے۔

الرَّوْمَةُ: آئینہ۔ رَج مَرَاةٌ وَمَرَاةٌ: اس سے
فعل کا اشتقاق کرتے ہیں جیسے "تَمَرَّتْ أَيْ
یعنی وہ آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھ رہا ہے (اس کو
سیویہ نے بیان کیا ہے)

الرَّوْمِيُّ: عارف باللہ۔ عالم۔
الرَّوْبَانِيُّ: ملاحوں کا چیٹر مین۔

الرَّوْمَةُ: رب کا مَوْنٌ۔ دیوی۔ مالکہ۔ بڑا
گھر۔
الرَّوْمَةُ: بڑی جماعت۔ ایک قسم کا درخت۔ رَج
أَرْبَةٌ وَرَبَابٌ۔

الرَّوْمَةُ: پھلوں کے رس کو پکا کر گاڑھا کیا ہوا
شیرہ۔ رَج رِبَابٌ وَرَبَابٌ۔
رَبٌّ وَرَبَّةٌ وَرَبْمَا وَرَبْتَمَا: حرف جر ہے
حسب سیاق کلام تکثیر و تظہیر کا فائدہ دیتا ہے
اور کمرہ پر داخل ہوتا ہے اور زائد کے حکم میں
ہوتا ہے اور کمرہ کے لئے شرط ہے کہ موصوف
ہو اور جب اس کے آخر میں "ما" لائق ہوتا
ہے تو عمل نہیں کرتا اور اس صورت میں فعل
اور معرفہ پر بھی داخل ہوتا ہے جیسے "رَبْمَا
السَّخِيلِ مُقْبِلٌ وَرَبْمَا أَقْبَلَ السَّخِيلِ" اور
کبھی اس صورت میں بھی عمل کرتا ہے جیسے
"رَبْمَا ضَرْبَةٌ بِسَيْفٍ صَقِيلٍ"

الرَّوْمَةُ: رَج رِبَابٌ وَرَبَابٌ۔
الرَّوْمَةُ: سوتیل پاپ۔
الرَّوْمَةُ: سوتیلی ماں۔
الرَّوْمَةُ: بہت پانی۔ بیٹھا پانی۔
الرَّوْمَةُ: سارنگی کی مانند ایک جگہ۔ سفید
بادل۔ واحد (رَبَابَةٌ)

الرَّوْمَةُ: سوتیل پاپ۔
الرَّوْمَةُ: سوتیلی ماں۔
الرَّوْمَةُ: بہت پانی۔ بیٹھا پانی۔
الرَّوْمَةُ: سارنگی کی مانند ایک جگہ۔ سفید
بادل۔ واحد (رَبَابَةٌ)

الرَّوْمَةُ: سوتیل پاپ۔
الرَّوْمَةُ: سوتیلی ماں۔
الرَّوْمَةُ: بہت پانی۔ بیٹھا پانی۔
الرَّوْمَةُ: سارنگی کی مانند ایک جگہ۔ سفید
بادل۔ واحد (رَبَابَةٌ)

الرَّوْمَةُ: سوتیل پاپ۔
الرَّوْمَةُ: سوتیلی ماں۔
الرَّوْمَةُ: بہت پانی۔ بیٹھا پانی۔
الرَّوْمَةُ: سارنگی کی مانند ایک جگہ۔ سفید
بادل۔ واحد (رَبَابَةٌ)

الرَّوْمَةُ: سوتیل پاپ۔
الرَّوْمَةُ: سوتیلی ماں۔
الرَّوْمَةُ: بہت پانی۔ بیٹھا پانی۔
الرَّوْمَةُ: سارنگی کی مانند ایک جگہ۔ سفید
بادل۔ واحد (رَبَابَةٌ)

الرَّوْمَةُ: سوتیل پاپ۔
الرَّوْمَةُ: سوتیلی ماں۔
الرَّوْمَةُ: بہت پانی۔ بیٹھا پانی۔
الرَّوْمَةُ: سارنگی کی مانند ایک جگہ۔ سفید
بادل۔ واحد (رَبَابَةٌ)

الرَّوْمَةُ: سوتیل پاپ۔
الرَّوْمَةُ: سوتیلی ماں۔
الرَّوْمَةُ: بہت پانی۔ بیٹھا پانی۔
الرَّوْمَةُ: سارنگی کی مانند ایک جگہ۔ سفید
بادل۔ واحد (رَبَابَةٌ)

الرَّوْمَةُ: سوتیل پاپ۔
الرَّوْمَةُ: سوتیلی ماں۔
الرَّوْمَةُ: بہت پانی۔ بیٹھا پانی۔
الرَّوْمَةُ: سارنگی کی مانند ایک جگہ۔ سفید
بادل۔ واحد (رَبَابَةٌ)

الرَّوْمَةُ: سوتیل پاپ۔
الرَّوْمَةُ: سوتیلی ماں۔
الرَّوْمَةُ: بہت پانی۔ بیٹھا پانی۔
الرَّوْمَةُ: سارنگی کی مانند ایک جگہ۔ سفید
بادل۔ واحد (رَبَابَةٌ)

الرَّوْمَةُ: سوتیل پاپ۔
الرَّوْمَةُ: سوتیلی ماں۔
الرَّوْمَةُ: بہت پانی۔ بیٹھا پانی۔
الرَّوْمَةُ: سارنگی کی مانند ایک جگہ۔ سفید
بادل۔ واحد (رَبَابَةٌ)

الرَّوْمَةُ: سوتیل پاپ۔
الرَّوْمَةُ: سوتیلی ماں۔
الرَّوْمَةُ: بہت پانی۔ بیٹھا پانی۔
الرَّوْمَةُ: سارنگی کی مانند ایک جگہ۔ سفید
بادل۔ واحد (رَبَابَةٌ)

کہ آفتاب کب ڈوبتا ہے۔

الرَبِيْءُ وَالرَّبِيْعَةُ: فوج کا دیدبان۔ رَجْ رَبَائِيَا: کہا جاتا ہے "نَبُوَازِيَا يَاهُمْ" انہوں نے اپنے دیدبانوں کو پھیلا دیا۔

الرَّبِيْءُ وَالرَّبِيْعَةُ وَالرَّبِيْعَةُ الْمُرْتَبَا: دیدبان کی جگہ۔ المِرْبَا: میڑھی۔

رَبْتٌ (س) رَبْتَا وَرَبْتٌ تَرَبِيْسًا: پرورش کرنا۔

رَبْتٌ الصَّبِي: بچے کو سلانے کے لئے جھپکانا۔

رَبْتٌ (س) رَبْتَا الشِّي: بند ہونا۔

رَبْتَةٌ (ن) رَبْتَا وَرَبْتَةٌ عَن كَذَا: منع کرنا۔ روکنا۔ بوجھل کرنا۔

تَرَبْتٌ: ٹھہرنا۔ دیر کرنا۔

اِرْتَبْتُ وَاِرْتَبْتُ: القَوْمُ: پر اگندہ ہونا۔ متفرق ہونا۔ اَمْرُهُمْ: کمزور ہونا۔ بکھر جانا۔

الرَّبِيْعِيُّ: مانع۔ روک۔

الرَّبِيْعَةُ: کمر۔ مانع۔ رَجْ رَبَائِيْتُ:

الزَّبِيْتُ وَالْمُرَبُوْتُ: رُکا ہوا۔

رَبِيْحٌ (ک) وَرَبِيْحٌ (س) رَبِيْحَةٌ: کودن ہونا۔ بلید ہونا۔

تَرَبِيْحٌ: تخیر ہونا۔ کودن ہونا۔

اِلْاِرْبِيْحَانُ: ایک قسم کی نباتات۔

رَبِيْحٌ (س) رَبِيْحًا وَرَبِيْحًا وَرَبِيْحًا: فِي تَبَارِيْهِ: نَفْعٌ اَشْهَاتَا۔

رَبِيْحَةٌ: نَفْعٌ كَرَامَاتَا۔

رَبِيْحَةٌ مَرَابِيْحَةٌ وَرَبِيْحَةٌ: عَلِي سَلْعَتِهِ: نَفْعٌ دِيْنَا۔ اِرْبِيْحُ النَّاقَةِ: صُح اور دوپہر میں دوھنا۔

تَرَبِيْحٌ وَاسْتِرْبِيْحٌ: نَفْعٌ طَلَبُ كَرَامَاتَا۔

الرَّبِيْحُ: فَا۔ مَالٌ اِرْبِيْحٌ: نَفْعٌ دِيْنِي وَالاِمَالِ۔

الرَّبِيْحُ رَجْ اِرْبِيْحٌ (الرَّبِيْحُ وَالرَّبِيْحُ): نَفْعٌ۔ السَّرْبِيْحُ: اُوْنْتُ جو بیچنے کے لئے لائے جائیں۔ اُوْنْتُ کے چھوٹے بچے۔

الرَّبِيْحُ: شَرَابٌ۔

الرَّبِيْحِيُّ: کافر کی ایک قسم۔

الرَّبِيْحُ وَالرَّبِيْحُ: نَرَبِيْحٌ۔ بکری کا بچہ۔

اُوْنْتُ کا بچہ۔ رَجْ رَبَائِيْحٌ۔

مُتَبَجَّرٌ (رَبِيْحٌ): فائدہ مند تجارت۔

الرَّبِيْحُ: بڑے ڈیل ڈول والا۔ اُوْنْتُ رَبِيْحَةٌ۔

رَبِيْحٌ (س) رَبِيْحًا: البَعِيْرُ: اُوْنْتُ کا ریت میں مشکل سے چلنا۔ رَبِيْحًا رَبِيْحًا:

رَبِيْحًا: السَّرَاةُ: جماع کے وقت شدت شہوت سے عورت کا بے ہوش ہو جانا۔

اِرْبِيْحُ: الرَّمْلُ: تہ بہ تہ ہونا۔ الرَّبِيْحُ: بختیوں میں مبتلا ہونا۔

تَرَبِيْحٌ: الرَّبِيْحُ: سست و ڈھیلا ہونا۔

الرَّبِيْحُ: بڑا پالان۔

رَبِيْحٌ (ن) رَبِيْحًا: بِالسَّمَكَانِ: اقامت کرنا۔

رَبِيْحَةٌ (ن) رَبِيْحًا: رُوکنا۔ منع کرنا۔

رَبِيْحٌ اِلْاِبِلُ: اُوْنْتُ کو پاڑہ میں باندھنا۔ رَبِيْحَتُ: الشَّاةُ: بھن میں سیاہ سفید داغوں والی ہونا۔ تَرَبِيْحَةُ الصَّرْعُ: بھن کا سیاہ سفید داغ والا ہونا۔

تَرَبِيْحَتُ: السَّمَاءُ: آسان کا ابر آلود ہونا۔ الرَّبِيْحُ: تیوری چڑھانا۔ اللُّوْنُ: رنگ بدل جانا۔

اِرْبِيْحٌ اِرْبِيْحًا وَاِرْبِيْحًا اِرْبِيْحًا: خَاكْسَرِي رَنگ والا ہونا۔

الرَبِيْحُ: مِصْ۔ ایک قسم کی نباتات۔

الرَبِيْحُ: تَلُوْرًا کاجویر۔

الرَبِيْحُ: مِصْ۔ ایک قسم کی نباتات۔

اِلْاِرْبِيْحُ: خَاكْسَرِي رَنگ والا۔ عَامٌ اِرْبِيْحٌ: قَطْ وَالاسَالُ۔ مَوْنْتُ رَبِيْحًا: السَّرْبِيْحَةُ: سخت و شدید۔ کہا جاتا ہے "فَاِهِيَةٌ رَبِيْحًا" بلائے بد۔ رَجْ رَبِيْحٌ۔ اِلْاِرْبِيْحُ: ایک قسم کا زہریلا سانپ۔ شیر۔

الرَبِيْحُ: اُوْنْتُ وغیرہ کا پاڑہ۔ گھروں کے بیچے کا میدان جو کام آئے۔ کھجور خشک کرنے کی جگہ۔

الرَبِيْحُ: کھجوریں جن پر پانی چھڑکا گیا ہو۔

الرَبِيْحَةُ: دستاویز اور چک وغیرہ رکھنے کی صندوق۔

الرَبِيْحَةُ: مَیْرٌ۔

رَبِيْحٌ (س) رَبِيْحًا: جِلْعَلٌ یا کام کرنے میں پھرتیلا ہونا۔ صَفْتُ (رَبِيْحٌ) کہا جاتا ہے۔ "هُوَ رَبِيْحُ الْعِيَانُ" وہ تمہا بھاگنے والا ہے۔ مَوْنْتُ رَبِيْحَةٌ: لِيْئَةٌ رَبِيْحَةٌ: کَمْ گوشت والا سوڑھا۔

اِرْبِيْحٌ: السُّوْبُ اَوِ السُّجْلُ: کپڑے یا ریشی کو کاٹنا۔

الرَبِيْحَةُ وَالرَبِيْحَةُ: جَمِيْعٌ جس سے نار زبورات کو صاف کرتا ہے۔ کوڑے کا پھیندنا۔

رَنگ ہوئی روٹی کا کٹرا جس کو اُوْنْتُ کے کان یا گردن میں لٹکاتے ہیں اون جس سے اُوْنْتُ کی ماش کی جاتی ہے۔ شیشی کا سر بند۔ رَجْ رَبِيْحٌ وِرَبِيْحٌ وِرَبِيْحٌ۔

الرَبِيْحَةُ: بے خبر آدمی۔ ہر پلیدی۔

الرَبِيْحِيُّ: کمان کا چلہ۔ کوڑا۔

رَبِيْحٌ (ک) رَبِيْحًا: زَبِيْرٌ وِدَاآ۔

الرَبِيْحِيُّ: مِيْنْدٌ مے کافر۔ ہونا۔

رَبِيْحٌ: الرَبِيْحَةُ: مِخْک بھرتا۔

اِرْبِيْحٌ: السُّوْبُ: پورا دکال ہونا۔

الرَبِيْحُ: زَبِيْرٌ وِدَاآ۔

رَبِيْحَةٌ (ن) رَبِيْحًا: بِيْدِيْهِ: ڈھنڈھ مارنا۔

(.....) وَرَبِيْحٌ (الرَبِيْحَةُ: مِخْک بھرتا۔

اِرْبِيْحُهُ اِرْبِيْحًا: غَضِيْبًا ک روینا۔

اِرْبِيْحُ: العُقْفُوْدُ: گھجھے کا ایک دوسرے میں گھنٹنا۔ ٹھوس ہونا۔

اِرْبِيْحُ: اِرْبِيْحًا: الرَبِيْحُ: مِخْک میں جانا۔

فِي اَمْرِهِ: تَعْرِفُ كَرَامَاتَا..... اَمْرُهُمْ: کام کے خراب ہو جانے سے لوگوں کا متفرق ہو جانا۔

الرَبِيْحُ: مِصْ۔ امر مکر۔ بہت۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ بِمَالِ رَبِيْحٍ" وہ بہت مال لایا۔

الرَبِيْحَةُ: بَحْتُ مِصِيْبَتَا۔ رَجْ رَبِيْحٌ "جَاءَ بِأَمْوَالِ رَبِيْحٍ" وہ مصائب لایا۔

الرَبِيْحُ: بَهَادَرُ۔ مِصِيْبَتَا۔ دہنڈھ مارا ہوا۔

مِصِيْبَتَا زَدَا۔ ٹھوس۔ (اُمُّ السُّرِيْبِيْسُ): بڑا سانپ۔ مِصِيْبَتَا کی کنیت۔

الرَبِيْحَةُ: مِيْلِي مِيْلِي بَدِيْعَتَا عَوْرَتَا۔

الرَبِيْحَةُ: چھتدر کی مانند ایک سبزی جس کا

مزدہ شیریں مائل کھنا ہوتا ہے۔

أَرْبَشُ: المشجور: پتے دار ہونا اور بقول بعض پھلدار ہونا۔

الأربش: مختلف رنگوں والا۔ مؤنث زُنْشَاءُ.

أَرْحُ زُنْشَاءُ: مختلف رنگوں کی بہت گھاس والی زمین۔

الرؤيشة: رنگوں کا اختلاف۔

الرئيش: نوجوانوں کے ناخنوں کی سفیدی۔

زَبْضُ (ن) زَنْبَا: بہ کسی کے لئے خیر و شر کا انتظار کرنا۔ برائی پہنچانے کے لئے موقع کی تاک میں رہنا۔

تَرْبِضُ: انتظار کرنا..... غن الأمر: تاک جانا.....

فِي الْمَكَانِ: ٹھہرنا..... بِفُلَانٍ: کسی رَبِضٌ..... بِسَلْعِيهِ: گرانی کا انتظار کرنا۔

الرؤيشة: انتظار۔ رنگ برنگ۔

زَبْضَتُ (ض) زَنْبَا وَرُبُوضًا وَرَبْضَةً:

الذباية: جانور کا گھسنے کے بل بیٹھنا۔ زَبْضُ الأَسَدِ عَلَى فَرَسِيهِ أَوْ الْقِرْنِ عَلَى فَرْسِهِ: دیوچ کر بیٹھنا۔

زَبْضُ (ن ض) زَنْبَا وَرُبُوضًا. فَلَانًا أَوْ الْمَكَانِ: پناہ لینا۔

زَبْضَةٌ: بِالْمَكَانِ: ٹھہرانا..... الدوائر:

جانوروں کو بیٹھنے کی جگہ میں روک رکھنا۔

يُوجَّهَلُ كَرَكِ شَمَادِيْنَا..... الشمس: آفتاب

کا سخت گرم ہونا یہاں تک کہ جانور کو بٹھا دے۔

تَرْبِضُ: ضعف کی وجہ سے ٹھہرے رہنا۔

الرَبِضُ: فَا..... الرَبَاضُ: شیر۔

الرَبِضَةُ: رَابِضٌ: کاموٹ۔ بڑے بڑے کاموں سے عاجز۔ تک چھپنے کے لئے کہا جاتا ہے

”الرَّبِضَةُ رَابِضَةٌ عَلَى وَجْهِهِ“.

الرَّبِضُ وَالرَّبِضُ وَالرَّبِضُ وَالرَّبِضُ:

بیوی۔ بہن۔ ماں۔ کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ زَبِضٌ عَنِ الْأَسْفَارِ أَوْ عَنِ الْحَاجَاتِ“ یعنی سفر میں یا ضرورت کے لئے نہ نکلنے والا مرد۔

الرَّبِضُ: عمارت کی بنیاد۔ کسی چیز کا وہ حصہ جو زمین سے لگے۔ چیز کا درمیان۔

الرَّبِضُ: مِنَ الْبَقْرِ: بیٹھی ہوئی گائے کا گلہ۔

الرَّبِضُ: بکریوں کا باڑہ۔ قوم کے رہنے کی جگہ۔ شہر کا گرد و نواح۔ شہر کی تفصیل۔

آنتیں۔ کچادہ کی رسی۔ ہر وہ چیز جس کی پناہ لی جائے یا جس سے آرام حاصل کیا جائے۔

رَبْضُ الرَّبَاضِ:

الرَّبِضَةُ وَالرَّبِضَةُ: ضعف کی وجہ سے ٹھہرنے والا یا بہت بیٹھے والا مرد۔

الرَّبِضَةُ: لاشوں کے ڈھیر کی جگہ۔ لاش۔

بکریوں کا گلہ۔ آدمیوں کا گروہ۔ بکری کے بیٹھنے کی ہیئت۔

الرَّبِضُ: مِنَ الْقَوَى: آباد گاؤں۔ مِنَ الذَّرْوَعِ: کشادہ زرہ..... مِنَ الشَّجَرَةِ: بڑا درخت۔ رَبْضُ: قِرْبَةٌ زَبُوضٌ: بڑی مشک جو اٹھائی نہ جا سکے۔

الرَّبِضُ: باڑے میں بیٹھی ہوئی بھیڑیں۔ مع اپنے چرواہوں کے پیٹ میں آنتوں کی جگہ۔

الرَّبِضُ: جانوروں کے بیٹھنے کی جگہ۔ رَبْضُ الرَّبَاضِ (..... وَالرَّبَاضِ): پیٹ میں آنتوں کی جگہ۔

رَبِضَةُ (ن ض) زَنْبَا: باندھنا۔ مضبوط کرنا..... اللہ عَلَى قَلْبِهِ: قوی کرنا۔ صبر دینا۔ (رَبَاطَةٌ): مضبوط دل ہونا۔

رَبِطَ رَبَاطًا وَمَرَابِطَةً: الأَمْرُ: مداومت کرنا..... الخيش: لشکر کا دشمن کی سرحد کے پاس ہمیشہ قیام رکھنا۔

تَرْبِطُ المَاءِ فِي الْمَكَانِ: پانی کا جمع ہو کر ٹھہرنا اور گدلا ہونا۔

إِرْتَبَطَ: فَرَسًا: حفاظت مرحد کے لئے تیار کرنا..... فِي الخَيْلِ: بندھنا اور لٹکانا۔

الرَّبَاطُ: مَص: جس سے کسی چیز کو باندھا جائے۔ دل۔ گھوڑا۔ قلعہ یا وہ جگہ جہاں لشکر حفاظت مرحد کے لئے قیام کرے۔ رَبْطُ:

الرَّبَاطُ: فقراء کے لئے مکان موقوفہ۔ رَبْطُ الرَّبَاطَاتِ: کہا جاتا ہے ”قَرَضٌ رَبَاطَةٌ“ یعنی وہ مر گیا یا مرض سے تندرست ہو گیا۔

رَبِطَ: مِنَ الرَّبَاطِ: فَا..... الرَّبَاطُ: شہر کا گرد و نواح۔ شہر کی تفصیل۔

الرَّبَاطَةُ: رَابِطٌ: کاموٹ۔ بڑے بڑے کاموں سے عاجز۔ تک چھپنے کے لئے کہا جاتا ہے

”الرَّبَاطَةُ رَابِطَةٌ عَلَى وَجْهِهِ“.

الرَّبَاطُ وَالرَّبَاطُ وَالرَّبَاطُ وَالرَّبَاطُ:

بیوی۔ بہن۔ ماں۔ کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ زَبِضٌ عَنِ الْأَسْفَارِ أَوْ عَنِ الْحَاجَاتِ“ یعنی سفر میں یا ضرورت کے لئے نہ نکلنے والا مرد۔

الرَّبَاطُ: عمارت کی بنیاد۔ کسی چیز کا وہ حصہ جو زمین سے لگے۔ چیز کا درمیان۔

رَبِطَ: مِنَ الرَّبَاطِ: فَا..... الرَّبَاطُ: شہر کا گرد و نواح۔ شہر کی تفصیل۔

الرَّبَاطَةُ: رَابِطٌ: کاموٹ۔ بڑے بڑے کاموں سے عاجز۔ تک چھپنے کے لئے کہا جاتا ہے

”الرَّبَاطَةُ رَابِطَةٌ عَلَى وَجْهِهِ“.

الرَّبَاطُ وَالرَّبَاطُ وَالرَّبَاطُ وَالرَّبَاطُ:

بیوی۔ بہن۔ ماں۔ کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ زَبِضٌ عَنِ الْأَسْفَارِ أَوْ عَنِ الْحَاجَاتِ“ یعنی سفر میں یا ضرورت کے لئے نہ نکلنے والا مرد۔

الرَّبَاطُ: عمارت کی بنیاد۔ کسی چیز کا وہ حصہ جو زمین سے لگے۔ چیز کا درمیان۔

الرَّبَاطُ: فَا..... رَابِطٌ: کاموٹ۔ بڑے بڑے کاموں سے عاجز۔ تک چھپنے کے لئے کہا جاتا ہے

”الرَّبَاطَةُ رَابِطَةٌ عَلَى وَجْهِهِ“.

الرَّبَاطُ وَالرَّبَاطُ وَالرَّبَاطُ وَالرَّبَاطُ:

بیوی۔ بہن۔ ماں۔ کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ زَبِضٌ عَنِ الْأَسْفَارِ أَوْ عَنِ الْحَاجَاتِ“ یعنی سفر میں یا ضرورت کے لئے نہ نکلنے والا مرد۔

الرَّبَاطُ: عمارت کی بنیاد۔ کسی چیز کا وہ حصہ جو زمین سے لگے۔ چیز کا درمیان۔

الرَّبَاطُ: شہر کا گرد و نواح۔ شہر کی تفصیل۔

الرَّبَاطَةُ: رَابِطٌ: کاموٹ۔ بڑے بڑے کاموں سے عاجز۔ تک چھپنے کے لئے کہا جاتا ہے

”الرَّبَاطَةُ رَابِطَةٌ عَلَى وَجْهِهِ“.

الرَّبَاطُ وَالرَّبَاطُ وَالرَّبَاطُ وَالرَّبَاطُ:

بیوی۔ بہن۔ ماں۔ کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ زَبِضٌ عَنِ الْأَسْفَارِ أَوْ عَنِ الْحَاجَاتِ“ یعنی سفر میں یا ضرورت کے لئے نہ نکلنے والا مرد۔

الرَّبَاطُ: عمارت کی بنیاد۔ کسی چیز کا وہ حصہ جو زمین سے لگے۔ چیز کا درمیان۔

رَبِطَ: مِنَ الرَّبَاطِ: فَا..... الرَّبَاطُ: شہر کا گرد و نواح۔ شہر کی تفصیل۔

الرَّبَاطَةُ: رَابِطٌ: کاموٹ۔ بڑے بڑے کاموں سے عاجز۔ تک چھپنے کے لئے کہا جاتا ہے

”الرَّبَاطَةُ رَابِطَةٌ عَلَى وَجْهِهِ“.

الرَّبَاطُ وَالرَّبَاطُ وَالرَّبَاطُ وَالرَّبَاطُ:

بیوی۔ بہن۔ ماں۔ کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ زَبِضٌ عَنِ الْأَسْفَارِ أَوْ عَنِ الْحَاجَاتِ“ یعنی سفر میں یا ضرورت کے لئے نہ نکلنے والا مرد۔

الرَّبَاطُ: عمارت کی بنیاد۔ کسی چیز کا وہ حصہ جو زمین سے لگے۔ چیز کا درمیان۔

رَبِطَ: مِنَ الرَّبَاطِ: فَا..... الرَّبَاطُ: شہر کا گرد و نواح۔ شہر کی تفصیل۔

الرَّبَاطَةُ: رَابِطٌ: کاموٹ۔ بڑے بڑے کاموں سے عاجز۔ تک چھپنے کے لئے کہا جاتا ہے

”الرَّبَاطَةُ رَابِطَةٌ عَلَى وَجْهِهِ“.

الرَّبَاطُ وَالرَّبَاطُ وَالرَّبَاطُ وَالرَّبَاطُ:

بیوی۔ بہن۔ ماں۔ کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ زَبِضٌ عَنِ الْأَسْفَارِ أَوْ عَنِ الْحَاجَاتِ“ یعنی سفر میں یا ضرورت کے لئے نہ نکلنے والا مرد۔

الرَّبَاطُ: عمارت کی بنیاد۔ کسی چیز کا وہ حصہ جو زمین سے لگے۔ چیز کا درمیان۔

رَبِطَ: مِنَ الرَّبَاطِ: فَا..... الرَّبَاطُ: شہر کا گرد و نواح۔ شہر کی تفصیل۔

الرَّبَاطَةُ: رَابِطٌ: کاموٹ۔ بڑے بڑے کاموں سے عاجز۔ تک چھپنے کے لئے کہا جاتا ہے

”الرَّبَاطَةُ رَابِطَةٌ عَلَى وَجْهِهِ“.

الرَّبَاطُ وَالرَّبَاطُ وَالرَّبَاطُ وَالرَّبَاطُ:

بیوی۔ بہن۔ ماں۔ کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ زَبِضٌ عَنِ الْأَسْفَارِ أَوْ عَنِ الْحَاجَاتِ“ یعنی سفر میں یا ضرورت کے لئے نہ نکلنے والا مرد۔

الرَّبَاطُ: عمارت کی بنیاد۔ کسی چیز کا وہ حصہ جو زمین سے لگے۔ چیز کا درمیان۔

رَبِطَ: مِنَ الرَّبَاطِ: فَا..... الرَّبَاطُ: شہر کا گرد و نواح۔ شہر کی تفصیل۔

اٹھایا جائے اس کو بوجھ کے نیچے داخل کرنا۔
کہا جاتا ہے ”زَبَعَةُ“ میں نے اس کے
ساتھ بوجھ کو کٹڑی کے سہارے سے اونٹ کی
پیشہ پر لادنا۔

أَرْبَعٌ: چوتھے سال میں داخل ہونا۔

..... الْقَوْمُ: چار ہونا۔ موسم بہار میں داخل
ہونا۔ موسم بہار کی اقامت گاہ یا سبزہ زرار اور
پانی پر وارد ہونا..... اِبْلٌ: پانی پر جانے کے
لئے آزاد چھوڑ دینا۔ أَرْبَعُ الرَّجُلِ:
بڑھاپے میں بچہ پیدا ہونا۔

أَرْبَعُ الرَّجُلِ: چوتھیا بخار والا ہونا۔

تَوْبَعٌ: فی جُلُوبِهِ: چار زانو ہو کر بیٹھنا۔

(.....) وَإِزْتَبَعُ الْجَمَلُ: اونٹ کا بہار کا سبزہ
چمکے موٹا ہونا..... بِالسَّمْكَانِ: فصل بہار میں
اقامت کرنا۔ وَإِزْتَبَعُ الْحَجَرُ: پتھر اٹھانا۔
إِسْتَرْبَعُ الرَّجُلُ: ریت کا تہہ ہونا۔

..... الشَّيْ: طاقت رکھنا۔

الرَّبْعُ: بھس۔ گھر۔ گھر کا ارد گرد۔ اترنے کی
جگہ۔ موسم گزارنے کی جگہ۔ لوگوں کی
جماعت۔ لاش۔ رَجُ رِبَاعٍ وَرَبْوَعٍ وَأَرْبَعٍ
وَأَرْبَاعٍ (.....) وَالرَّبْعُ: میانہ قد۔

الرَّبْعُ وَالرَّبْوَعُ: چوتھائی رَجُ رِبَاعٍ وَرَبْوَعٍ.
الرَّبْوَعُ: اونٹنی کا بچہ جو ابتدائی موسم بہار میں
پیدا ہوا اور اگر آخر میں پیدا ہو تو اس کو رِبْوَعُ:
کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے ”مَالَهُمْ رِبْعٌ
وَلَا هَيْعٌ“ رَجُ رِبَاعٍ وَأَرْبَاعٍ مَوْثَرٌ رِبْعَةٌ رَجُ
رَبْعَاتٍ وَرِبَاعٍ.

الرَّبْوَعُ: تین دن اونٹوں کو روک کر چوتھے دن
پانی پلانا۔ حُمَّى الرَّبْوَعِ: چوتھیا بخار۔

الرَّبْوَعُ: فا۔ چوتھا۔ رِبْوَعٌ رَبْوَعٌ: بہت فراخی
اور رزائی کا موسم بہار۔ اِبْلٌ رِبْوَعٍ: چوتھے
دن پانی پینے والے اونٹ۔

رِبَاعٌ: چار چار۔

کہا جاتا ہے ”اتَّوَارَبَاعٌ“: وہ لوگ چار چار
آئے۔

الرَّبْوَعَةُ: میانہ قد (مذکر مَوْثَرٌ) رَجُ رَبْعَاتٍ
وَرَبْعَاتٍ: عطر فروش کا ڈبہ۔ کہا جاتا ہے

”فَتَحَ الْعَطَارُ رَبْعَتَهُ“ عطر فروش نے اپنا ڈبہ
کھولا۔

الرَّبْوَعُ: اچھی حالت۔ کہا جاتا ہے ”هَمُّ عَلِيٍّ
رَبْوَعِيٌّ“ وہ لوگ اپنی اچھی حالت پر ہیں۔

الرَّبْوَعَةُ وَالرَّبْوَعِيُّ: اچھی حالت۔ کہا جاتا
ہے ”لَيْسَ فِيهِمْ مِنْ يَضْبُطُ رَبْعَتَهُ
الْأَفْلَانَ“ ان لوگوں میں فلاں کے علاوہ کوئی

اپنی خوشحالی کو برقرار رکھنے والا نہیں۔
سرداری۔ کہا جاتا ہے ”لَا يَلْقِيَنَّ رَبْعَةَ الْقَوْمِ
إِلَّا أَفْلَانٌ“ قوم کی سرداری کو فلاں ہی برقرار

رکھ سکتا ہے۔ ”هُنَّ رَبْعَاتُ قَوْمِهِ“ وہ اپنی
قوم کا سردار ہے۔ مملوک چیز جس سے انسان

کی حالت اچھی ہو۔

الرَّبْوَعِيَّةُ: سامنے کے چار دانتوں اور کچلیوں
کے درمیان والی دانت۔ رَجُ رَبْعَاتِيَّاتٍ.

الرَّبْوَعِيُّ: وہ جانور جس کے رباعی دانت گر
گئے ہوں۔ رَجُ رَبْعٍ وَرَبْوَعٍ وَرِبْعَانٍ وَرِبَاعٍ
وَرَبْوَعٍ وَأَرْبَاعٍ مَوْثَرٌ رَبْعَاتِيَّةٌ رَجُ
رَبْعَاتِيَّاتٍ.

الرَّبْوَعِيُّ: چار سے مرکب۔

الرَّبْوَعُ: رَجُ أَرْبَعَةٍ وَرِبَاعٍ وَأَرْبَعَاءٍ: موسم
بہار۔ موسم بہار کی بارش۔ موسم بہار کی
پیداوار۔ سبز چارہ۔ کہا جاتا ہے ”رَبْوَعٌ
رَبْوَعٌ“ فراخی اور رزائی کا موسم بہار..... رَجُ
أَرْبَعًا وَرَبْوَعًا: زمین کے لئے پانی کا حصہ

..... رَجُ رَبْوَعٍ: چوتھائی۔

الرَّبْوَعِيُّ: مِنَ السَّمْسَانِ: موسم بہار کی
اقامت گاہ۔

الرَّبْوَعِيُّ: پتھر جو طاقت کی آزمائش کے لئے
اٹھایا جائے۔ بارش۔ لوہے کا خود۔ توشہ

وان۔ خوشبو وغیرہ رکھنے کا برتن۔
الرَّبْوَعِيُّ: کمزور۔ کمینہ۔

الرَّبْوَعِيُّ: پستہ قد۔ چار زانو بیٹھے والے کی
نشست۔ اونٹ کے بچوں کی ایک بیماری۔

أَرْبَعَةٌ: چار۔ مَوْثَرٌ أَرْبَعٌ: الرِّبَاخُ الْأَرْبَعُ:
پچھوئی۔ پروائی۔ دکھنی۔ اتری ہوا میں۔
ذَوَاتُ الْأَرْبَعِ: چار پائے۔

أَمْ أَرْبَعٌ وَأَرْبَعِيْنٌ: ایک قسم کا کثیرا۔
الْأَرْبَعَاءُ: مثلثة الباء۔ بدھ کا دن۔ ششہ
أَرْبَعَاوَانٌ. جَ أَرْبَعَاءَاتٍ وَأَرْبَعَاوَاتٍ.
قَعْدَةُ (الْأَرْبَعَاءُ وَالْأَرْبَعَاوِيَّةُ): وہ چار زانو
بیٹھا۔

الْأَرْبَعَاءُ: ستون خانہ۔
أَرْبَعُونٌ: چالیس۔

الرَّبْوَعُ: موسم بہار کی بارش
(.....) وَالرَّبْوَعِيُّ: موسم بہار کی اقامت گاہ۔
الرَّبْوَعُ وَالرَّبْوَعِيُّ: کٹڑی جو جانور پر بوجھ
لادنے کے لئے استعمال کی جائے۔

الرَّبْوَعِيُّ: موسم بہار میں بچہ جننے والی اونٹنی۔
الرَّبْوَعِيُّ: چوتھیا بخار والا۔
الرَّبْوَعِيُّ: چار ستون والا یا چار ضلعوں والی
شکل۔ حاصل ضرب جو کسی عدد کو کسی سے
ضرب دے کر حاصل ہو جیسے ۳×۳×۳=۲۷

الرَّبْوَعِيُّ: وہ جگہ جہاں کی سبزی ابتدائی موسم
بہار میں آگے۔ مال غنیمت کی چوتھائی جو
زمانہ جاہلیت میں سردار لیا کرتا تھا۔ موسم
بہار میں بچہ دینے والی اونٹنی۔

(.....) وَالرَّبْوَعِيُّ وَالرَّبْوَعِيُّ: درمیانہ قد۔
الرَّبْوَعِيُّ: ابتدائی موسم بہار کی بارشیں۔
الرَّبْوَعِيُّ: ایک قسم کا چوہا جس کی اگلی ٹانگیں
چھوٹی اور پچھلی بڑی ہوتی ہے۔ رَجُ رَبْوَعِيَّةٍ.
رَبْوَعٌ (ف) رَبْوَعًا: الْقَوْمُ فَسَى النَّبِيِّمِ:
خوشحال زندگی بسر کرنا۔
رَبْوَعٌ (ف) رَبْوَعًا: عَيْشُهُ: فراخ و آسودہ
ہونا..... الرَّجُلُ: بدکار و شوخ چشم ہونا۔
صفت (رَبْوَعِيٌّ)
رَبْوَعٌ (ك) رَبْوَعَةٌ: بہت ہونا۔
الرَّبْوَعِيُّ: کثیر و کشادہ۔
رَبْوَعَةٌ (ن ض) رَبْوَعًا وَرَبْوَعَةً: پھندے سے
باندھنا..... هُ فِي الْأَمْرِ: کام میں ڈالنا۔
وَرَبْوَعٌ الْكَلَامِ: جھوٹ سے مزین کرنا۔ کہا
جاتا ہے ”رَبْوَعٌ الرَّجُلُ اتْنَاءَ حَيْلِهِ وَأَرْبَاعُهُ“
مرد نے اپنے بکری کے بچوں کے لئے رسی کا
پھندا بنایا۔

وربایین۔ زَبَانُ كَمَلِ شَيْءٍ: ہر چیز کا بڑا حصہ۔ کہا جاتا ہے "أَخَذَ بَرِيئَتَهُ أَوْ بِرِيئَاتِهِ" اس نے سارا لے لیا۔

زَبَانِيُونُوا رِبَاءً وَرُبُوًّا: المال: زیادہ ہونا۔ بڑھنا۔ السَّرَابِيَّةُ: تیلہ پر چڑھنا۔ (زَبُونًا) الفَرَسُ: پھولنا۔ سانس چڑھنا۔ (زَبُونًا) وَرُبُونًا) الوَلَدُ: لڑکے کا بڑھنا اور نیز کہا جاتا ہے "زَبِيئٌ وَرَبِيئٌ رِبَاءً وَرَبِيًّا" میں نے نشوونما پائی۔

رَبِيٌّ قَرِيْبَةٌ وَقَرِيْبِيٌّ: الوَلَدُ: لڑکے کا پرورش کرنا۔ غذا دینا۔ مہذب بنانا۔ رَبِيٌّ التَّفَاخُ: بالشُّكْرِ: مرید اللہ۔

زَاهِي مُرَاهَاةٌ: سود پر مال دینا۔

الزُّبْحِيُّ: بہتر سلوک کرنا۔

أَرْبِي إِزْبَاءً: سود لینا۔ الشَّيْءُ: بڑھانا۔ ۵: أُمِيدُ لَانَا: عَلَيْهِ فِي كَذَا وَإِرْبَاءُ إِزْبَاءً: زیادہ کرنا۔

السَّرِيْسَا: زیادتی۔ سود۔ بیاہ۔ نسبت کے لئے۔ رَبِيُوِيٌّ۔

الرَّبِيَا: زیادتی۔ احسان۔ کہا جاتا ہے "لِفَلَانٍ عَلِيٌّ رَبِيًّا" فلاں کا میرے اوپر احسان ہے۔ السَّرَابِيَّةُ: حُرُوَابٌ وَ(السَّرِيْبُوَّةُ وَالسَّرِيْبُوَّةُ وَالرَبِيُوَّةُ) ج رَبِيٌّ وَرَبِيٌّ: تیلہ۔

السَّرِيْبُوَّةُ: عِنْدَ الْحُسَابِ الرَبِيُوَّةُ: دس لاکھ۔ بڑی جماعت (مانند دس ہزار کے) ج رَبِيٌّ رَبِيٌّ: الرُّبِيَّةُ: حشرات الارض کی ایک قسم۔ ٹی۔

الزَّبَاةُ وَالزَّبَاوَةُ: جملگیٹ۔ تیلہ۔

السَّرِيْبُوَّةُ: تیلہ۔ چڑھی ہوئی سانس۔ جماعت۔ ج اَرْبَاءُ. السَّرِيْبُوَّةُ وَالسَّرِيْبُوَّةُ عِنْدَ الْاِطْبَاءِ: جوف کی سوجن۔ ایک بیماری جو پھپھروں میں ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سانس لینے دشوار ہوتی ہے۔

الارْبِيَّةُ: اہل خاندان۔ چچا زاد بھائی۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ فِيْ اَرْبِيَّةٍ قَوْمِهِ" یعنی وہ اپنے اہل اور اپنے قبیلہ میں آیا۔ ران کی جڑیا ران کے بالائی حصہ اور پیٹ کے درمیان کا حصہ۔

رَبَلٌ (ان ض) زَبَلًا. الْقَوْمُ: بڑھنا۔ زیادہ تعداد والی ہونا۔ رَبَلَتِ الْمَرَاغِي: بہت گھاس والی ہونا۔

رَبَلٌ وَأَرْبَلٌ. الْمَسْكَانُ: موسم خزاں کی نباتات والی جگہ ہونا۔

رَابَلٌ: بدکار ہونا اور برائی کا منتظر رہنا۔

تَوَابِلٌ: یوگوں پر لوٹ ڈالنا۔

تَرْبَلٌ: موسم خزاں کی سبزی کھانا۔ شکار کرنا۔

بہت گوشت والا ہونا۔ جَسْمُهُ: پھولنا۔

الارْبِيَّةُ: موسم خزاں کی بہت سبزی والی ہونا۔ موسم خزاں کے آنے پر خشک ہونے کے بعد سبزی ہونا۔ تَرْبَلٌ الْقَوْمُ: موسم خزاں کی سبزی چرانا۔

إَرْبَلٌ: مالہ: بہت ہونا۔

السَّرَبَلُ: موسم خزاں کے پودے و سبزی جو بغیر بارش کے رات کی ٹہنی کی وجہ سے پھوٹے۔ ج زَبُولٌ۔

الزَّبَلُ: بہت سبز رنگ کی ایک قسم کی گھاس۔ زَبَلٌ (زَبَلٌ): موٹا مرد۔

السَّرَبَلَةُ وَالسَّرَبَلَةُ: ران کی جڑیں۔ موٹا گوشت۔ ج زَبَلَاتٌ۔

الزَّبَلُ: تنہا لوٹ ڈالنے والا چور۔ موٹا۔

الزَّبَالَةُ وَالزَّبَالَةُ: گوشت کی زیادتی۔ کہا جاتا ہے "ضَمْرٌ بَعْدَ زَبَالَةٍ" وہ موٹائی کے بعد دبلا ہو گیا۔ السَّرَبِيَّةُ: تری۔ نعمت۔ فراخی۔ زندگی۔

السَّرِيْسَالُ: جس بیچیدہ نباتات۔ شیر۔ ج رَبَابِيْلٌ۔

السَّرَبَالُ: بہت موسم خزاں کے نباتات والی زمین۔

السَّرَبِيْلُ: ناز و نعم میں پٹی ہوئی موٹی عورت۔ موٹی اونٹنی۔

أَرْبَنَةٌ: بیعانہ دینا۔

تَرْبِيْنٌ: جہاز کا کپتان ہونا۔ السَّرَبِيْنَةُ: کشی چلانا۔

الزَّبُونُ وَالْأَرْبُونُ وَالْأَرْبَانُ: بیعانہ۔

الزَّبَانُ وَالرَّبَابِيُّ: جہاز کا کپتان۔ ج زَبَابَنَةٌ۔

تَرْبَقَةٌ: لٹکانا۔ کہا جاتا ہے "تَرْبَقْتُ الشَّيْءَ فِیْ عُنُقِي" میں نے چیز کو پانی گردن میں لٹکایا۔

إَرْبَقٌ: فِی الْجَبَالَةِ: لٹکانا۔ فِی الْأَمْرِ: کسی کام میں پھنسا اور اسی سے ہے "إَرْبَقْتُ فِي حَبَالِيَّةٍ" یعنی میں اس کے مکرو فریب میں پھنس گیا۔

الرَّبِيْقُ: پھندوں والی رسی۔

السَّرَبَقَةُ وَالرَّبِيْقَةُ: رسی کا پھندا۔ ج رَبَقٌ وَرَبَاقٌ وَأَرْبَاقٌ: کہا جاتا ہے "حَلٌّ وَرَبَقَةٌ" اس نے اس کے رنج و غم کو دور کر دیا۔ وَ"نَقَضُوا الْجَبَالَ وَآكَلُوا الرِّبَاقَ" انہوں نے عہد و پیمان توڑ دیئے۔

السَّرَبِيْقُ: پھندے سے باندھا ہوا یا پھندے میں پھنسا ہوا۔

السَّرَبِيْقَةُ: چربی سے ترکی ہوئی روٹی۔

السَّرَبِيْقُ: بکری باندھنے کی رسی۔

أُمُّ الرَّبِيْقِ: بلا۔

زَبَكٌ (ن) زَبَكًا. الشَّيْءُ: ملانا۔ الزَّبِيْكَةُ: گارا بنانا۔ ۵: کچھ میں گارنا۔

زَبَكٌ (س) زَبَكًا: بیچیدہ و دوشوار معاملہ میں پھنسا۔ صفت (زَبَكٌ وَرَبِيْكٌ)

إَرْبِيْكٌ: فِی الْوَحْلِ: کچھ میں گارنا۔ فِی الْأَمْرِ: پھنسنے کے رہ جانا۔ فِی كَلَامِهِ: رک رک کے گفتگو کرنا۔ السَّرَبِيْكُ: السَّرَبِيْكُ: شکار کا جال میں تڑپنا۔

پھڑ پھڑانا۔ السَّرَبِيْكُ: معاملہ میں بیچیدہ ہونا۔

إَرْبَاكٌ إَرْبِيْكًا: زابہ: رائے کا گڑبڑ ہو جانا۔ السَّرَبِيْكُ: کام سے رک جانا۔

السَّرَبِيْكَةُ: گارا۔ دودھ ملا ہوا کھن۔ کہا جاتا ہے "زَمَاهُ بَرِيْكَةُ" اس نے اس کو بیچیدہ معاملہ میں پھنسا دیا۔ (.....) وَالسَّرَبِيْكُ وَالسَّرَبِيْكُ: ایک قسم کا کھانا جو پیڑ بھجور اور گھی ملا کر تیار کرتے ہیں اور کبھی پانی ڈال کر پیتے ہیں۔

السَّرَبِيْكَةُ: جہاز کا کپتان ہونا۔ السَّرَبِيْكَةُ: کشی چلانا۔

الزَّبُونُ وَالْأَرْبُونُ وَالْأَرْبَانُ: بیعانہ۔

الزَّبَانُ وَالرَّبَابِيُّ: جہاز کا کپتان۔ ج زَبَابَنَةٌ۔

رَتْ (ض) رَتْصَا: ہنگلانا۔ تتلانا۔ صفت مذکر (اَزَتْ): وصفت مؤنث (رَتْصَا وَرَتْصَى) ج رَتْ۔
 اَزَتْهُ اِرْتَانَا: اللہ: ہنگلا کر دینا۔
 الرَتْ: سخت۔ نرسور۔ جنگلی سور۔ ج رَتْصه۔
 الرَتْ: برکس۔ سردار۔ ج رَتْوَت: کہا جاتا ہے "هُوَ مِنْ رَتْوَتِ النَّاسِ" وہ لوگوں کا سردار ہے۔
 الرَتْة: ہنگلا پن۔ لکت۔ زبان کی ہنگلی۔
 رَتْصَا (ف) رَتْوَةٌ ۱: گلا گھوٹنا..... الشَّفْذَة: گرہ مضبوط کرنا..... فِی السَّمْكَانِ: اقامت کرنا..... الرُّجُلُ: چلا جانا۔
 اَزَتْا: رک رک کر ہنستا۔
 رَتْب (ن) رَتْبَا وَرَتْوَبَا: الشئی: قائم و ثابت ہوتا۔ سیدھا کھڑا ہوتا۔ کہا جاتا ہے "رَتْبٌ فِی الصَّلَاةِ" وہ نماز میں سیدھا کھڑا ہوا۔
 رَتْبَة: ثابت کرنا۔ مرتبہ کے لحاظ سے رکھنا۔
 اَزَتْب: سیدھا کھڑا ہونا۔ باوجود بے نیازی کے سوال کرنا..... الغَلَامُ الكَعْبُ: نصب کرنا۔ کھڑا کرنا۔
 تَوَتْب: ترتیب وار ہونا۔ سیدھا کھڑا ہونا۔
 الرَتْب: جتنی ونگلی۔ بلند زمین۔ قریب قریب چٹانیں جن میں بعض بعض سے بلند ہوں۔
 (..... والرَتْب): خضر و بنصر کے درمیان کا فاصلہ۔ چنگلیا کے پاس والی انگلی اور بیچ کی انگلی کے درمیان کی جگہ۔
 الرَتْبَة: انگلیوں کے درمیان کا فاصلہ۔
 الرَتْبَة: مرتبہ۔ ج رَتْب۔
 التَّوَتْبُ والرَتْوَبُ: قائم و ثابت چیز۔ ہنگلی۔ مٹی۔ غلام جس کے یکے بعد دیگرے تین مالک ہوں۔ کہا جاتا ہے "جَسَأُوا تَوَتْبًا" وہ سارے آئے۔
 التَّوَتْبَة: راستے کے مانند جس پر آدمی چلے۔
 الرَاتِب: فَا۔ عِشْرَ رَاتِبٍ: عیش و آرام۔
 والرَاتِبُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ: تنخواہ۔ وظیفہ۔
 الرَّوَاتِبُ: الرُّوَاتِبُ: سُنُّنِ مَوْكَدَه۔

الرَّتْبَة: درجہ۔ اعلیٰ درجہ۔ ج مَرَاتِب۔
 رَتْج (ن) رَتْجَا: البَابُ: دروازہ بند کرنا (..... رَتْجَانَا) الصَّبِي: بچے کا چلنے لگانا۔
 رَتْج (س) رَتْجَا: الخَطِيبُ: خطیب کا تقریر میں بند ہو جانا۔
 اِرْتَجَج: البَابُ: دروازہ مضبوط بند کرنا..... الفَلِجُ: برف کا لگا تار گرنا۔
 الخَضْبُ: ساری زمین کو عام ہونا۔
 الذَّبْجَاةُ: مرضی کا انڈوں سے بھر جانا۔
 البَحْرُ: سمندر کا جوش مارنا۔
 اُرْتَجَجَ وَارْتَجَجَ: اُسْتَرْتَجَجَ: الخَطِيبُ: خطیب کا تقریر میں بند ہو جانا۔
 السَّرْتَجُ والرَّتْجَا: پھانک۔ بڑا بند دروازہ جس میں ایک چھوٹا سا دروازہ ہو۔
 سِجَّة (رَتْج): ہنگلی۔ مَالُ رَتْجٍ: مال جس کے حاصل کرنے کی کوئی سبیل نہ ہو۔
 الرَّتْجَاةُ: چٹان۔ ج رَتْجَالِج۔
 (..... والرَّتْج): تنگ راستہ۔ ج مَرَاتِب۔
 السَّرْتَجَا: تنگ راستہ۔ کچی۔ مکان (مَرْتَج): بہت نباتات والی جگہ۔
 رَتْخ (ف) رَتْوُخَا: العَجِينُ: گندھے ہوئے آٹے کا پانی زیادہ کرنے سے پتلا ہونا..... بالسَّمْكَانِ: اقامت کرنا..... مِنَ الخَيْرِ: پیچھے رہنا۔
 رَتْع (ف) رَتْعَا وَرَتْوَعَا وَرَتْعَا: آسودہ زندگی بسر کرنا..... فی المَمْكَانِ: اقامت کرنا اور فراخی کے ساتھ کھانا پینا۔ صفت (رَاتِع) ج رَتْعٌ وَرَتْعٌ وَرَتْعٌ وَرَتْوَعٌ وَرَاتِعُونَ۔
 رَتْعٌ فِی مَالِ فُلَانٍ: دوسرے کے مال سے کھانے پینے میں فائدہ اٹھانا۔ فِی لَحْمٍ فُلَانٍ: غیبت کرنا۔
 اِرْتَع: السَّقْوَمُ: سرسبز زمین میں پلینچنا اور چرانا..... الاَرْضُ: چرنے والے کو آسودہ کرنا..... العَيْثُ: بارش کا چارہ کو آگاتا۔
 الدَّوَابُ: جانوروں کو چرانا۔
 السَّرْتَعَة: سبزے کی کثرت اور اسی سے ہے "اَسْمَنْبِي القَيْدُ والرَّتْعَة" مجھ کو قید اور

آسودگی نے موٹا کر دیا۔
 الرَّتِيع: آسودہ زندگی والا جس کو ہر چیز حاصل ہو۔ کھلا رَتْيع: چرنے والے کے لئے کافی گھاس۔
 الاِرْتَاع: مِنَ النَّاسِ: بہت لوگ۔ کہا جاتا ہے "رَاتَيْتُ اِرْتَاعًا مِنَ النَّاسِ": میں نے بہت لوگوں کو دیکھا۔
 السَّرْتَاع: سرسبز چراگاہ میں اپنے اونٹوں کو لے جانے والا۔
 السَّرْتِيع: آسودہ زندگی والا جس کو ہر چیز حاصل ہو۔
 المَرْتِيعُ: چراگاہ۔
 رَتْق (ن) رَتْقًا: القَوْبُ: جوڑنا۔
 الفَتْقُ: درست کرنا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ الرَّتَاتِقُ السَّفَاتِقُ" وہ اصلاح کرنے والا۔ و"رَتْقٌ فَفَقَهُهُمْ": اس نے ان کے درمیان صلح کرادی..... الشئی: بند کرنا۔
 اِرْتَقِق: الشئی: جڑ جانا۔
 السَّرْتَاتِقُ: دو کپڑے جن کے کنارے جوڑ دیئے گئے ہوں۔
 الرَّتْفَقَة: انگلیوں کے درمیان کا فاصلہ۔
 الرُّتُوْقُ: عزت و شرف۔
 رَتْك (ض ن) رَتْكًا وَرَتْكًا وَرَتْكَانًا السَّبْعِيْرُ: اونٹ کا چھوٹے چھوٹے قدم سے دوڑنا۔
 اِرْتَك: السَّبْعِيْرُ: اونٹ کو چھوٹے چھوٹے قدم سے دوڑانا۔ اِرْتَك السَّبْحُكُ: آہستہ ہنسا۔
 المَرْتَك: مردانگ۔
 رَتْل (س) رَتْلًا: الشئی: عمدہ نظم و ترتیب سے ہونا۔ صفت (رَتْل)۔
 رَتْلُ: الكَلَامُ: اچھی طرح ترتیب دینا۔
 القرآن: قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر عمدہ طریقے سے پڑھنا۔
 تَرْتَلُ: فِی القَوْلِ: ٹھہر ٹھہر کر اچھی طرح بولنا۔
 الرَّتْلُ: بطن۔ عمدہ گفتگو۔ کہا جاتا ہے "كَلَامُ

رَتَلٌ: خوبی۔ آراستی۔ ہر چیز کی خوبی۔
 فَعْرُوتٌ: خوبصورت ہموار دانت۔
 الرُّبَيْلُ: پڑھنے کے وقت آواز پست کرنا۔
 آواز کو عمدہ بنانا۔ مولدین کے نزدیک ترتیل
 آواز کو پڑھنے یا گانے میں اس طرح بنانا کہ
 سارے حرف اچھی طرح ادا ہوں۔
 الأُرْتَالُ: اچھی ترتیب والا۔ تتلانے والا۔
 الرُّبَيْلَاءُ: کبڑے کوڑے وغیرہ جیسے کبڑی
 کبھی وغیرہ۔ ج رُبَيْلَاوَاتُ: ایک قسم کی
 نباتات جس کے پھول سوسن کے پھول کی
 طرح ہوتے ہیں۔
 رَتَمَهُ (ض) رَتَمًا: توڑنا یا کوٹنا..... فی
 نبی فلان: پرورش پانا اور کہا جاتا ہے "مَارَتَمَ
 بکَلْبِمَةً": وہ ایک لفظ نہیں بولا۔ (..... رَتَمًا)
 رَتَمَ کے دانے کھانے سے بے ہوش ہونا۔
 ست ہونا۔
 أَرْتَمَ وَرَتَمَ وَأَرْتَمَ: یاد رکھنے کے لئے انگلی
 پر دھاگا لپیٹنا۔ أَرْتَمْتُ زَيْدًا: یاد آنے کے
 لئے میں نے زید کی انگلی میں دھاگا باندھا۔
 الرَّتَمُ: ایک قسم کا درخت جس کے دانے سوسن
 کی مانند ہوتے ہیں واحد (رَتْمَةٌ) الرَّتَمُ: بھرا
 ہوا توشہ دان۔ کامل حیا۔ آہستہ گفتگو۔
 راستہ۔
 الرَّتَامُ: بوسیدہ۔
 الرَّتْمَةُ: ج رَتَمَ وَرَتَمًا (وَالرَّتْمَةُ) ج
 رَتَامٍ: دھاگا جو کسی مقصد کے یاد رکھنے کے
 لئے انگلی پر لپیٹ لیا جائے۔
 الرَّتِيمُ: آہستہ چال۔ وہ شخص جس کو رتیم کے
 دانے کھانے سے بے ہوش طاری ہوئی ہو۔
 ج رَتَامِي.
 شَرُّ (مُرْتَمٍ وَرَتَمٍ): دانگی فساد۔
 رَتَنٌ: (ن) رَتْنَا: الشَّحْمُ بالعَجِجِينَ:
 گندھے ہوئے آنے میں چربی ملانا۔
 رَتَسَاهُ يَرْتَسُوهُ رَتْسًا: ڈھیلا کرنا۔ باندھنا۔
 القَلْبُ: دل کو توی کرنا..... ه إِلَهَ: ملانا۔
 الدَّلْوُ: ڈول کو آہستگی سے کھینچنا..... رَتْسًا
 وَرَتْسًا: بڑا سہ: سر سے اشارہ کرنا.....

الرُّجُلُ: قدم رکھنا۔
 رُتِي: فِي ذَرْعِهِ: ست بازو ہونا۔
 الرُّقُودَةُ: قدم بلند زمین۔ تھوڑا سا وقت۔ حد
 نظر تک۔ کہا جاتا ہے "بَيْتَنَا وَبَيْنَهُم رُقُودَةٌ"
 ہمارے اور ان کے درمیان بہت فاصلہ ہے
 جو بمقدار حد نظر کے ہے۔
 الرُّقَاتِي: دوسروں سے زائد علم والا۔
 رَتَّ: (ض) رَتًّا وَرَتْسًا: الرُّقُودَةُ: الرُّقُودَةُ:
 کبڑے کا بوسیدہ ہونا۔ صفت (رَتَّ) ج
 رَتَاتُ.
 أَرَّتْ إِرْتَاتًا: الرُّقُودَةُ: کبڑے کا بوسیدہ ہونا۔
 پرانا کرنا۔
 أَرَّتْ: رُخْمِي كَوْمِي: ان جنگ سے لایا جاتا۔
 صفت (مُرَّتٌ)
 الرَّرْتُ: مص۔ گھر کا رومی سامان۔ ج
 رُتَاتُ: کہا جاتا ہے "سَلَامٌ عَنَّ رَتَّ" یعنی
 گھسیا درجہ کا کلام۔
 الأَرْتُ: بوسیدہ۔ پرانا۔
 الرُّرَيْثُ: بوسیدہ۔ پرانا۔ رُخْمِي نِيْمُ: مردہ۔
 الرُّرَيْثَةُ: گھر کا رومی سامان۔ ج رُتَّتُ
 وَرُفَاتُ: کمزور لوگ۔
 الرُّرَائَةُ: مص۔ کبھٹی۔ بوسیدگی۔
 رُفًا: (ف) رُفًا: اللِّينُ: دودھ کا دہی بنانا۔
 گاڑھا کرنا..... الشُّيْ بِالشُّيْ: ملانا.....
 غَضْبُهُ: غصہ کا شتمنا پڑنا۔
 أَرَفَا وَأَرْتَفَا: اللِّينُ: دودھ کا گاڑھا ہونا۔
 إِرْتَفَا فِي رَأْبِهِ: رائے میں گڑبڑی کرنا۔ إِرْتَفَاتًا
 عَلَيْهِمُ الأَمْرُ: گڑبڑ ہونا۔ إِرْتَفَا: الرُّرَيْثَةُ:
 دہی پینا۔
 السَّرْتُ وَالسَّرْفَاةُ: بے وقوفی۔ کم سمجھی۔ کمزور
 ولی۔
 الرُّرَيْثَةُ: رُفَا اللِّينُ: کاسم۔ دہی۔ بے
 وقوفی۔ بیخاملا ہوا ترش دودھ۔
 رَجُلٌ (مُرْتُوذٌ): کمزور ولی۔ کم سمجھ۔
 رَتَّدَ: (ن) رَتَّدًا وَأَرْتَدَدَ: المَتَاعُ: سامان
 کو اوپر نیچے رکھنا۔ صفت مفعولی (رَتَّدًا
 وَمُرْتُوذًا)

رَتَّدَ: (س) رَتَّدًا وَأَرْتَدَدَ: المَتَاعُ: پانی کا
 گدلا ہونا اور کہا جاتا ہے "اِخْتَفَرَ حَتْسِي
 أَرْتَدَدَ: اس نے کھو دیا یہاں تک کہ نیناک مٹی
 تک پہنچ گیا۔ أَرْتَدَدَ القَوْمُ: جماعت ہونا۔
 الرُّرَيْثَةُ وَالرُّرَيْثَةُ: لوگوں کی جماعت جو مقیم ہو
 سفر نہ کرتی ہو۔
 الرُّرَيْثَةُ: ترتیب سے تہ بہ تہ رکھا ہوا سامان۔
 رَتَّدَ النِّبْتِ: گھر کا رومی سامان۔
 المُرْتَدُ وَالمُرْتَدُ: فیاض و بخی مرد۔ المُرْتَدُ:
 شیر۔
 رَتَّطَ: (ن) رَتَّطًا وَأَرْتَطَطَ وَتَرْتَطَطَ: فِي
 قَعُودِهِ: نشست میں جم کے رہنا۔
 رَتَّعَ: (س) رَتَّعًا: بہت حریمس ولا لگی ہونا۔
 صفت (رَتَّعَ) ج رَتَّعُونَ.
 إِرْتَعَنَ إِرْتَعَانًا: المَطَرُ: لگا تار برنا.....
 فلان: کمزور اور ست ہونا..... الشَّعْرُ: بال کا
 تلکنا۔
 رَتَّمَ (ض) رَتَّمًا: الانف: ناک توڑ کر خون
 آلود کر دینا۔ صفت مفعولی (رَتَّمِمْ وَمُرْتَمِّمْ)
 رَتَّمٌ: (س) رَتَّمًا وَأَرْتَمَ: الفَرْسُ: ناک
 کے کنارے پر سفید داغ والا ہونا۔ صفت
 مذکر (رَتَّمٌ وَأَرْتَمٌ): صفت مؤنث (رَتَّمَةٌ
 وَرَتَّمَاءٌ) ج رَتَّمٌ.
 الرَّرْتَمُ وَالرَّرْتَمَةُ: گھوڑے کی ناک کے
 کنارے کا سفید داغ۔
 الرُّرْتَمَةُ: ہلکی بارش۔ ج رَتَامُ.
 المُرْتَمُ وَالمُرْتَمُ: ناک۔ ج مَرْتَمِمْ.
 رَتَّنَ قَرْنَيْنَا: اچھی طرح سے بارش ہونا۔
 الرُّرْتَانُ: لگا تار بارش۔
 أَرْضٌ (مُرْتُوذَةٌ وَمُرْتَقَةٌ): بارش شدہ زمین۔
 رَتَّنَا يَرْتَسُونَا رَتْسًا وَرَتْسِي رَتْسًا وَرَفَاةً
 وَرَتْسَانَةً وَمَرْتَقَةً وَمَرْتِيَةً: المَيْتُ: رونو اور
 محاسن شمار کرنا۔ مرثیہ کے اشعار کہنا۔
 رَتْسِي لَهْ: رحم کرنا۔
 رَتْسِي يَرْتَسِي رَتْسَانَةً: غنہ خدینا: یاد کرنا۔
 رَتْسِي يَرْتَسِي رَتْسِي وَرَتْسًا: جوڑوں کے درد والا
 ہونا۔

پھل کے بوجھ کی وجہ سے تھوٹی لگا دی گئی ہو۔	رُجْحِي وَرُجْحِي. السَّيِّئَاتُ: رونا اور محاسن شمار کرنا۔
میں اونٹوں کی جنبش۔	الرَّثَاءَةُ وَالرَّثَايَةُ: نوحہ کرنے والی عورت۔
إِمْرَأَةٌ (رُجْحَاءُ): بڑے سرین والی عورت۔	السَّرِيَّةُ: جوڑوں کا ورد (..... والسَّرِيَّةُ): کمزوری۔ سستی۔ بے وقوفی۔
رُجْحَاءُ (ن) رُجْحَاءُ: خوشوں کو کھلیان میں لے جانا۔ صفت (رُجْحَاءُ)	الْمَرْوَاتُ وَالْمَرْوِيَّةُ: وہ اشعار وغیرہ جس میں میت کے محاسن بیان کئے جائیں۔ مراثی و "السَّمَاوِي السَّنْع" عرب کے سات مشہور اور منتخب مرثیے۔
إِعْتَرَأَجِحَةُ أَوْ الْبَيَانَةُ الْعَدَدِيَّةُ: (علم جبرا) دو مخالف عدد کا مجموعہ۔	رُجْلٌ (مَثْرُوقٌ): کمزور عقل والا مرد۔
رُجْدٌ رُجْدًا وَرُجْدُو رُجْدًا: کا پھینا۔	الرُّوْقُ: وہی۔
رُجْزٌ (ن) رُجْزًا: رجز پڑھنا۔ صفت (رُجْزِيٌّ) رُجْزًا وَرُجْزًا: رجز پڑھنے والی عورت۔	رُجٌّ: (ن) رُجْحًا: بلانا۔ حرکت دینا۔
رُجْزَاءُ وَرُجْزَاءُ: رجز پڑھنے والی عورت۔	رُجْحَةٌ: (ن) رُجْحًا: بلانا۔ حرکت دینا۔
رُجْزَاءُ وَرُجْزَاءُ: رجز پڑھنے والی عورت۔	إِرْتَجِحُ: البحرُ: موج مارنا..... الكلامُ: ملتبیس ہونا۔
رُجْزَاءُ وَرُجْزَاءُ: رجز پڑھنے والی عورت۔	الرُّجْحَةُ: حرکت۔ رُجْحَةُ الْقَوْمِ: لوگوں کی آواز کا اختلاط۔
رُجْزَاءُ وَرُجْزَاءُ: رجز پڑھنے والی عورت۔	رُجْحًا: الغنمِ أَوِ النَّاسِ: کمزور ولاغر۔ کہا جاتا ہے "تَعَجُّدٌ رُجْحًا": لاغر بھیڑ۔
رُجْزَاءُ وَرُجْزَاءُ: رجز پڑھنے والی عورت۔	نَاقَةٌ (رُجْحَاءُ): بڑے کوہان والی اونٹنی جس کا کوہان چلنے میں ہلے۔
رُجْزَاءُ وَرُجْزَاءُ: رجز پڑھنے والی عورت۔	أَرْجَسًا: الأَمْرُ: کام کا موخر کرنا۔ اَرْجَسَاتُ الخَابِلُ: وضع حمل کا زمانہ قریب ہونا۔
رُجْزَاءُ وَرُجْزَاءُ: رجز پڑھنے والی عورت۔	الصَّائِدُ: شکاری کا کچھ نہ پانا۔
رُجْزَاءُ وَرُجْزَاءُ: رجز پڑھنے والی عورت۔	رُجْبٌ: (ن) رُجْبًا: مَنَّةٌ: شرم کرنا۔
رُجْزَاءُ وَرُجْزَاءُ: رجز پڑھنے والی عورت۔	رُجْبِيٌّ بِكَلَامٍ سَيِّئٍ: تہمت لگانا (..... رُجْبِيٌّ وَرُجْبِيٌّ أَوْ رُجْبِيٌّ): ڈرنا۔ تعظیم کرنا۔
رُجْزَاءُ وَرُجْزَاءُ: رجز پڑھنے والی عورت۔	رُجْبِيٌّ: (س) رُجْبِيًّا: مَنَّةٌ: گھبرانا۔ شرم کرنا۔ رُجْبِيٌّ: ڈرنا۔ تعظیم کرنا۔
رُجْزَاءُ وَرُجْزَاءُ: رجز پڑھنے والی عورت۔	رُجْبِيٌّ: ڈرنا۔ تعظیم کرنا۔ النخلة: درخت خرما میں ٹیک لگا دینا۔ ارد گرد کا نئے لگا دینا اور اسی سے ہے "أَنَا جُدَيْلُهَا الْمُحَكِّكُ وَعَدَيْتُهَا الْمُرْجَبُ" اس قول میں جُدَيْلُ جَدَلِ كِي أَوْ عَدَيْتُ عَدَقُ: کی تغیر ہے۔
رُجْزَاءُ وَرُجْزَاءُ: رجز پڑھنے والی عورت۔	جَدَلُ: کے معنی تیرا اور عَدَقُ کے معنی پھل دار درخت خرما۔ محکمک جس سے خارجی اونٹ اپنے بدن کو رگڑے اور مُرْجَبِيٌّ: جس میں
رُجْزَاءُ وَرُجْزَاءُ: رجز پڑھنے والی عورت۔	رُجْحِي وَرُجْحِي. السَّيِّئَاتُ: رونا اور محاسن شمار کرنا۔
رُجْحِي وَرُجْحِي. السَّيِّئَاتُ: رونا اور محاسن شمار کرنا۔	الرَّثَاءَةُ وَالرَّثَايَةُ: نوحہ کرنے والی عورت۔
رُجْحِي وَرُجْحِي. السَّيِّئَاتُ: رونا اور محاسن شمار کرنا۔	السَّرِيَّةُ: جوڑوں کا ورد (..... والسَّرِيَّةُ): کمزوری۔ سستی۔ بے وقوفی۔
رُجْحِي وَرُجْحِي. السَّيِّئَاتُ: رونا اور محاسن شمار کرنا۔	الْمَرْوَاتُ وَالْمَرْوِيَّةُ: وہ اشعار وغیرہ جس میں میت کے محاسن بیان کئے جائیں۔ مراثی و "السَّمَاوِي السَّنْع" عرب کے سات مشہور اور منتخب مرثیے۔
رُجْحِي وَرُجْحِي. السَّيِّئَاتُ: رونا اور محاسن شمار کرنا۔	رُجْلٌ (مَثْرُوقٌ): کمزور عقل والا مرد۔
رُجْحِي وَرُجْحِي. السَّيِّئَاتُ: رونا اور محاسن شمار کرنا۔	الرُّوْقُ: وہی۔
رُجْحِي وَرُجْحِي. السَّيِّئَاتُ: رونا اور محاسن شمار کرنا۔	رُجٌّ: (ن) رُجْحًا: بلانا۔ حرکت دینا۔
رُجْحِي وَرُجْحِي. السَّيِّئَاتُ: رونا اور محاسن شمار کرنا۔	رُجْحَةٌ: (ن) رُجْحًا: بلانا۔ حرکت دینا۔
رُجْحِي وَرُجْحِي. السَّيِّئَاتُ: رونا اور محاسن شمار کرنا۔	إِرْتَجِحُ: البحرُ: موج مارنا..... الكلامُ: ملتبیس ہونا۔
رُجْحِي وَرُجْحِي. السَّيِّئَاتُ: رونا اور محاسن شمار کرنا۔	الرُّجْحَةُ: حرکت۔ رُجْحَةُ الْقَوْمِ: لوگوں کی آواز کا اختلاط۔
رُجْحِي وَرُجْحِي. السَّيِّئَاتُ: رونا اور محاسن شمار کرنا۔	رُجْحًا: الغنمِ أَوِ النَّاسِ: کمزور ولاغر۔ کہا جاتا ہے "تَعَجُّدٌ رُجْحًا": لاغر بھیڑ۔
رُجْحِي وَرُجْحِي. السَّيِّئَاتُ: رونا اور محاسن شمار کرنا۔	نَاقَةٌ (رُجْحَاءُ): بڑے کوہان والی اونٹنی جس کا کوہان چلنے میں ہلے۔
رُجْحِي وَرُجْحِي. السَّيِّئَاتُ: رونا اور محاسن شمار کرنا۔	أَرْجَسًا: الأَمْرُ: کام کا موخر کرنا۔ اَرْجَسَاتُ الخَابِلُ: وضع حمل کا زمانہ قریب ہونا۔
رُجْحِي وَرُجْحِي. السَّيِّئَاتُ: رونا اور محاسن شمار کرنا۔	الصَّائِدُ: شکاری کا کچھ نہ پانا۔
رُجْحِي وَرُجْحِي. السَّيِّئَاتُ: رونا اور محاسن شمار کرنا۔	رُجْبٌ: (ن) رُجْبًا: مَنَّةٌ: شرم کرنا۔
رُجْحِي وَرُجْحِي. السَّيِّئَاتُ: رونا اور محاسن شمار کرنا۔	رُجْبِيٌّ بِكَلَامٍ سَيِّئٍ: تہمت لگانا (..... رُجْبِيٌّ وَرُجْبِيٌّ أَوْ رُجْبِيٌّ): ڈرنا۔ تعظیم کرنا۔
رُجْحِي وَرُجْحِي. السَّيِّئَاتُ: رونا اور محاسن شمار کرنا۔	رُجْبِيٌّ: (س) رُجْبِيًّا: مَنَّةٌ: گھبرانا۔ شرم کرنا۔ رُجْبِيٌّ: ڈرنا۔ تعظیم کرنا۔
رُجْحِي وَرُجْحِي. السَّيِّئَاتُ: رونا اور محاسن شمار کرنا۔	رُجْبِيٌّ: ڈرنا۔ تعظیم کرنا۔ النخلة: درخت خرما میں ٹیک لگا دینا۔ ارد گرد کا نئے لگا دینا اور اسی سے ہے "أَنَا جُدَيْلُهَا الْمُحَكِّكُ وَعَدَيْتُهَا الْمُرْجَبُ" اس قول میں جُدَيْلُ جَدَلِ كِي أَوْ عَدَيْتُ عَدَقُ: کی تغیر ہے۔
رُجْحِي وَرُجْحِي. السَّيِّئَاتُ: رونا اور محاسن شمار کرنا۔	جَدَلُ: کے معنی تیرا اور عَدَقُ کے معنی پھل دار درخت خرما۔ محکمک جس سے خارجی اونٹ اپنے بدن کو رگڑے اور مُرْجَبِيٌّ: جس میں

رَجَسَ: (س) وَرَجَسَ: (ک) رَجَسًا: بَرَأَ كَامًا كَرْنَا - صَفَتْ (رَجَسًا) اِرْتَجَسَتْ. السَّمَاءُ: كَرَّرْنَا - اِلْتَجَسَتْ: عمارت کے پٹنے سے آواز سنانا دینا۔
 الرَجَسُ والرَّجَسُ والرَّجَسُ: گندمی پلیدی۔ الرَجَسُ: بُرَأَ عَمَلٌ كَى سَرًا - شَيْطَانٌ كَاوَسُورًا - خَفِيفٌ حَرَكَةٌ - السَّرَجَسُ: سَمْدَرٌ - كَمَا جَا تَا هُ "بَعِيرٌ" اَوْ سَحَابٌ رَجَسٌ" بہت تیز آواز والا بادل یا اونٹ۔
 بَعِيرٌ رَجُوسٌ مَرَجَسٌ: تیز آواز نکالنے والا اونٹ۔
 المَرَجَسُ: پانی کی گہرائی ناپنے والا آلہ۔
 المَرَجُوسَةُ: فساد گر گزرا ہٹ۔
 رَجَعَ: (ض) رَجُوعًا وَمَرَجَعًا وَمَرَجَعَةً: وَرَجَعِي وَرَجَعَانَا: واپس آنا۔ لوٹنا۔ (..... رَجَعًا وَمَرَجَعًا وَمَرَجَعًا) الْكَلَامُ فِيهِ: فائدہ دینا۔ کہا جاتا ہے "فَسَاهُوَ الْأَسْجَعُ لَيْسَ فِيهِ رَجَعٌ" یہ صرف جمع ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ الجَلْفُ فِي الدَّابَّةِ: چارہ کا جانور میں اثر کرنا۔ کہا جاتا ہے "رَجَعٌ عَوْدُهُ عَلَى بَدَنِهِ" وہ جس راستہ سے آیا تھا اسی سے واپس گیا..... الشَّيْءُ عَنْهُ اَوَّالِيَهُ: پھیرنا۔ واپس کرنا۔ رو کرنا..... رَجُوعًا وَرَجَعًا) الطَّيْرُ: گرم جگہ سے سرد جگہ میں جانا۔ رَجَعَ: فِي صَوْبِهِ: حلق میں آواز کو گھمانا۔ (..... وَتَرَجَعَ) فِي الْمُصَيَّبَةِ: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾: کہنا: رَجَعَتْ الدَّابَّةُ: قدم رکھنا۔ تَرَجَعَ النَّاقَةُ: ایک اونٹنی کی قیمت سے اسی جیسی دوسری خریدنا۔
 رَاجِعَةٌ: فِي الْأَمْرِ: دوسرے سے معاملہ میں بات چیت کرنا..... السَّكَّامُ: دو بارہ گفتگو کرنا..... الرَّجُلُ: اپنی پہلی بھلی یا بُری عادت کی طرف لوٹ جانا۔
 أَرَجَعَهُ: رو کرنا۔ پھیرنا..... الدَّابَّةُ: چوپایہ کا گوہر کرنا۔ النَّاقَةُ: اونٹنی کا لاغر ہونا۔ لاغری کے بعد مونا ہونا..... الرَّجُلُ فِي الْمُصَيَّبَةِ:

﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾: کہنا..... اللّٰهُ يَبْعَثُهُ: نفع کرنا۔ اِرْتَجَعَ. النَّاقَةُ: ایک اونٹنی کی قیمت سے اس جیسی دوسری خریدنا۔ اِرْتَجَعَ إِلَى الشَّيْءِ: واپس کرنا۔ اِرْتَجَعَهُ: واپس کرنا۔
 الْمَرْأَةُ جَلَبَتِهَا: چہرہ پر دوبارہ ڈال لینا۔ اِرْتَجَعَ عَلَى الْغَرِيمِ: مطالبہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "بَاعَ خَيْلَهُ فَارْتَجَعَ مِنْهَا رِجْعَةً صَالِحَةً" اس نے اپنے گھوڑے کو بیچ دیا اور اس کی قیمت کو نفع بخش کام میں خرچ کیا۔
 تَرَجَعَ. الْقَوْمُ: اپنے اپنے مقامات پر واپس آنا..... الْقَوْمُ الْكَلَامُ بَيْنَهُمْ: قوم کا آپس میں گفتگو میں اُلٹ پھیر کرنا۔ اِسْتَرَجَعَ مِنْهُ الشَّيْءُ: واپس لینا..... فِي الْمُصَيَّبَةِ ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾: کہنا۔
 الْحَمَامُ فِي غِنَائِهِ: کبوتری کا گٹ گری کرنا۔
 الرَّجْعُ: مَص - خط کا جواب۔ بارش کے بعد بارش۔ نفع۔ موسم بہار کی سبزی۔ تالاب۔ رَجَاعٌ وَرَجْعَانٌ وَرَجْعَانٌ: الرَّجْعُ: لید..... مِنْ الْأَرْضِ: زمین کا وہ حصہ جس میں سیلاب دور تک پھیلا ہو..... مِنْ الْكَيْفِ: موٹہ ہے کا نچلا حصہ۔ کہا جاتا ہے "كَسَاوَةٌ عِنْدَ رَجْعِ كَنْفِهِ" اس کی موٹہ سے کے نچلے حصہ پر اس نے داغ لگایا۔ رَجَعَ الصَّدْيُ: آواز بازگشت۔
 الرَّجْعُ مِنَ الْكَلَامِ: واپس کی ہوئی گفتگو۔ لید۔ گوہر۔ تالاب۔ موسم بہار کی سبزی۔ اونٹ کی جگالی۔ ہر واپس کی ہوئی چیز۔ پرانا کپڑا۔ پینڈ۔ ٹھنڈا کھانا جو دوبارہ گرم کیا جائے۔ بَعِيرٌ رَجِيعٌ: سفر سے تھکا ہوا اونٹ۔ رَجَابُ: ذَابَةٌ رَجِيعٌ أَسْفَارٍ: بار بار سفر میں لوٹ لوٹ جانے والا چوپایہ۔ الرَّاجِعُ: فَا - عورت جس کے شوہر کی وفات ہو چکی ہو اور وہ اپنے کنبہ میں چلی گئی ہو۔ رَجَاعٌ: رَوَّاجِعٌ:

السَّرْبُجَّةُ: رَجَعٌ: کا اسم نوع۔ حجت۔ اونٹ۔ چھوٹے چھوٹے معمولی جن کی قیمت سے دوسرے اونٹ خرید کر نفع اٹھائیں۔ الرَّجْعَةُ: واپسی۔
 وَالرَّجْعَةُ وَالرَّجْعِيُّ وَالرَّجْعَانُ وَالرَّجُوعَةُ: خط کا جواب۔ المَرَجُوعُ: لوٹنے کی جگہ موٹہ ہے کا نچلا حصہ۔
 الْمَرَجُوعُ وَالْمَرَجُوعَةُ: خط کا جواب۔ گوونے کے نشانات جو دوبارہ تازہ ہو گئے ہوں۔ کہا جاتا ہے "لَيْسَ هَذَا الْبَيْعُ مَرَجُوعًا" اس بیچ کی واپسی نہیں۔
 الْمَرَجُوعُ: مِنَ النِّسَاءِ: عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اور وہ اپنے کنبہ میں واپس آ گئی ہو۔
 الرَّجَاعُ: مہار کا وہ حصہ جو اونٹ کی ناک پر ہو۔ رَجْعَةٌ وَرَجْعٌ.
 رَجَفَهُ: (ن) رَجَفًا وَرَجْفَانًا وَرَجْفِيًا: تیز ہلانا۔ ہلانا (لازمی و متعدي) الرَّجُلُ: بہت کانپنا۔ کسی خوف کے لاحق ہونے سے قرار نہ پکڑنا۔ الْأَرْضُ: زمین میں بھونچال ہونا۔
 الْقَوْمُ: لڑائی کے لئے تیار ہونا..... الرَّغْدُ: گزر گزرا..... الْأَسْنَانُ: دانتوں کا گرنہ۔
 أَرَجَفَ: لوگوں کو بھڑکانے کے لئے بری خبروں کو پھیلاتا..... الْقَوْمُ: بالشيء وفيه: گھسنا..... الرَّيْحُ الشَّجَرُ: ہوا کا درخت کو ہلانا۔
 أَرَجَفَتِ الْأَرْضُ: زمین میں بھونچال ہونا۔ زلزلہ ہونا۔
 تَرَجَفَ وَارْتَجَفَ: بہت زیادہ کانپنا۔ اِسْتَرَجَفَ: زائسہ: حرکت دینا اور کہا جاتا ہے "مَخْرَجُوا يَسْتَرْجِفُونَ الْأَرْضَ نَجْدَةً" وہ لوگ نکلے اس حال میں کہ انہوں نے زمین میں شجاعت و دلیری کی وجہ سے زلزلہ ڈال دیا۔
 الرَّجْفَةُ: اسم مرة - زلزلہ۔ بھونچال۔ الرَّاجِفُ: فَا - جوڑی والا بخار۔ الرَّاجِفَةُ: قِيَامَتُ كَرُوزُورُكََا پھلانچہ۔

جانور کی ایک ٹانگ کی سفیدی۔

الزَّجَلَةُ: عورت۔

السَّجِيلُ: جَزَجْلَةٌ وَاَزْجَلٌ وَاَزْجِيلٌ:

پیدل چلنے والا..... جَزَجْلِيٌّ وِرْجَالِيٌّ

وِرْجَالِيٌّ: بہت چلنے پر قادر۔ کَلَامُ رَجِيلٍ:

فی البدیہہ کلام۔ رَجِيلٌ رَجِيلٌ: قوی مضبوط مرد۔

مکان رَجِيلٌ: جگہ جس کے دونوں کنارے

دور دور ہوں۔ قَسْرَسٌ رَجِيلٌ: سدھا ہوا

سواری شدہ گھوڑا جس کو پسینہ آئے۔

الْأَزْجِيلُ: شکاری لوگ۔

السَّرْجُولَةُ وَالسَّرْجُولِيَّةُ وَالسَّرْجُولِيَّةُ

وَالرَّجِيلِيَّةُ: مردی۔ مردانگی۔

السَّرْجَالَانُ: پیدل چلنے والا۔ جَزَجَالِيٌّ

وِرْجَالِيٌّ وِرْجَالِيٌّ: مؤنث رَجَالِيٌّ۔ جَزَجَالِيٌّ

رَجَالٌ وِرْجَالِيٌّ۔

الْأَزْجِيلُ: مِنَ الدَّوَابِّ: ایک ٹانگ میں

سفید داغ والا جانور۔ رَجِيلٌ أَرْجَلٌ: بڑے

پاؤں والا مرد۔ مؤنث رَجَالَةٌ رَجَالَةٌ اور

کہا جاتا ہے "هُوَ أَرْجَلُهُمْ" وہ ان لوگوں

میں کامل مردانگی والا ہے۔

السَّرْجِيلُ: بمص جانور کے ایک ٹانگ کی

سفیدی۔

السَّرْجِيلُ: كَرَفَسٌ (ایک دوا کا نام)

الْمِرْجِيلُ: دیک۔ گھسی۔ جَزَجَالِيٌّ

السَّرْجِيلُ: مِنَ النَّسِيجِ وَنَحْوَهُ: کپڑا جس

پر آدمی کی تصویریں بنی ہوئی ہوں۔ شراب

سے بھری ہوئی مشک۔

السَّمْرَجِيلُ: مِنَ الْيَنَابِ: کپڑا جس پر دیک

کی صورت بنی ہوئی ہو۔

إِمْرَأَةٌ (مُورَجِلٌ): لڑکے ہی بننے والی عورت۔

رَجْمَةٌ: (ن) رَجْمًا: سنگسار کرنا۔ پتھر اڑا

کرنا۔ لعنت کرنا۔ گالی دینا۔ چھوڑنا۔

دھکیلنا۔

..... الْقَبْرِ: نشان کے لئے پتھر لگانا۔

السَّرْجِيلُ: اِنْكَلٌ سے بات کرنا۔ کہا جاتا ہے

"جَاءَ بَرَجْمٌ" وہ تیز بھاگتا ہوا آیا۔

الْوَجْلُ: جَزَجْلٌ: پاؤں۔ جَزَجَالٌ: کسی

چیز کا حصہ۔ مَذِيٌّ دَلٌ (یہ بغیر واحد کے جمع

ہے) کہا جاتا ہے "جَاءَتْ رَجُلٌ دِفَاعٌ"

یعنی بہت بڑا لشکر آیا (جو مَذِيٌّ دَلٌ کے مشابہ

ہے) عہد۔ زمانہ۔ کہا جاتا ہے "سَمَّانٌ

ذَالِكُ فِي رَجُلِ فُلَانٍ" یعنی فلاں کے عہد

میں ایسا تھا۔ السَّرْجِيلُ: پاجامہ۔ سفید کورا

کاغذ۔ فقیری۔ آدمی کا پاخانہ۔ بہت سونے

والا مرد۔ خوف تم کہتے ہو "أَنَا مِنْ أَمْرِي

عَلِيٌّ رَجُلٌ" مجھے اپنے امر کے فوت ہونے کا

خوف ہے۔ پیش قدمی۔ رَجِيلٌ الْبَحْرِ:

کھاڑی شیلج۔ رَجَالٌ السَّهْمِ: تیر کے دونوں

کنارے۔ رَجُلُ الْغُرَابِ وِرْجَلُ الْجُرَادِ:

دونبات کے نام رَجُلُ السَّجَارِ وِرْجَلُ

السَّجُورِ وِرْجَلُ فَتَطُورَسٌ: ستاروں کے

نام۔ کہا جاتا ہے "هُوَ يُقَدِّمُ رَجُلًا

وَيُؤَخِّرُ أُخْرَى": یعنی وہ اپنے معاملہ میں

متردد ہے کبھی ایک قدم اٹھاتا ہے کبھی

دوسرا۔

السَّرْجِيلُ: مرد۔ پیدل چلنے والا۔ جَزَجَالٌ

وِرْجَلَةٌ وِرْجَلَةٌ وَاَزْجَلٌ وِرْجَالَاتٌ: کہا

جاتا ہے "فُلَانٌ رَجُلٌ فِي الرِّجَالِ": فلاں

کامل مرد ہے۔

الرَّجِيلُ: بمص..... مِنَ الشَّعْرِ: کم گھنگریا لے

بال۔ جَزَجَالٌ وِرْجَالِيٌّ۔

السَّرْجِيلُ: پیدل چلنے والا۔ السَّرْجِيلُ مِنَ

الشَّعْرِ: کم گھنگریا لے بال۔

السَّرْجِيلُ: فا۔ پیدل چلنے والا۔ جَزَجَالٌ

وِرْجَالَةٌ وِرْجَالٌ وِرْجَالٌ وِرْجَالِيٌّ

وِرْجَالِيٌّ: کہا جاتا ہے "جَاءَتْ رَجُلٌ

السَّرْجَالَةُ وَالرَّجَالَةُ" سوار و پیادے سب

آئے۔ و "أَغَارَ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِهِ وِرْجَلُهُ":

اس نے ان پر اپنے سوار و پیادوں سے لوٹ

ڈالی۔ رَجِيلٌ رَجِيلٌ: پیدل چلنے والا مرد۔

الرَّوَجَلَةُ: خَرَفٌ كَأَسَاكٍ خَرَفٌ كَأَسَاكٍ اُغْنَى كِي

جگہ۔ جَزَجَالٌ۔

الرَّوَجَلَةُ: چلنے کی قوت۔ مردانگی۔ السَّرْجَالَةُ:

السَّرْجَالُ: بہت کا پینے والا۔ سمندر۔ قیامت

کا دن۔

الْأَرْجِيْفُ: گھڑی ہوئی جھوٹی خبریں۔ کہتے

ہیں "إِذَا وَقَعَتِ الْمَخَاوِفُ كَثُرَتِ

الْأَرْجِيْفُ" جب خوف بڑھ جایا کرتا ہے تو

جھوٹی خبریں بہت اڑتی ہیں۔

السَّرْجَالُ: اضطراب۔ بے قراری۔

رَجِيلٌ: (ن) رَجَالًا. الْفَصِيلُ: اونٹ کے

بچے کو ماں کا دودھ پینے کے لئے آزاد چھوڑ

دینا۔ الشَّاةُ: بکری کی ٹانگیں باندھ دینا۔

رَجَلَةٌ: ٹانگ پر مارنا۔

رَجِيلٌ: (س) رَجَالًا: پیدل چلنا۔ بیمار ٹانگ

والا ہونا..... الذَّنْبَةُ: ایک ٹانگ میں سفیدی

والا ہونا۔ الشَّعْرُ: بال کا کچھ گھنگھریا لے

ہونا۔ السَّفِيْصِلُ: اونٹ کے بچے کو ماں کا

دودھ پینے کے لئے آزاد چھوڑنا۔

رَجَلَةٌ: قوی کرنا..... الشَّعْرُ: گھنگھریا لے کرنا۔

أَرْجَلَةٌ: مہلت دینا۔ پیدل چلانا۔ الْفَصِيلُ:

اونٹ کے بچے کو ماں کا دودھ پینے کے لئے

آزاد چھوڑنا۔

السَّرْجِيلُ: سواری سے اتر کر پیدل چلنا.....

السَّمْرَةُ: مرد جیسی ہونا..... الشَّمْسُ: آفتاب

کا بلند ہونا..... السَّرُّ: وفي البصر: بغیر کچھ

لٹکائے ہوئے کوئیں میں اترنا..... السَّرْدُ:

پاؤں کے پیچھے رکھنا۔

الرَّجِيلُ: دپٹی میں پکانا۔ الشَّاةُ: ٹانگیں

باندھنا..... ہ: پاؤں سے پکڑنا..... السَّرْدُ:

پاؤں کے پیچھے رکھنا..... السَّكَلَامُ: فی البدیہہ

کہنا۔

..... السَّرْبِيْهَةُ: منفرد ہونا..... السَّرْبِيلُ: پیدل

چلنا۔

..... السَّرْبَارُ: دن کا چڑھنا..... السَّرْبَسُ:

درمیان دور قماروں کے آرام لینا۔ کہا جاتا

ہے "الرَّجِيلُ رَجَلٌ" اپنی شان کو لازم

پکڑ۔

السَّرْبِيلُ: بمص۔ پیدل چلنے والا۔ مرد۔ شَعْرٌ

رَجِيلٌ: کچھ گھنگھریا لے بال۔

رُجَحٌ فَلَانًا: شرم کرنا۔ اَزْحَبَتِ النَّاقَةُ: گھر پر ٹھہرنا۔
رُجَحٌ بِالسُّبْحِ: اس نے انکل بچے ہاتھیں کیں۔ القبر: نشان کے لئے پتھر لگانا۔

رُجَحٌ: انکل سے بات کرنا۔ کہا جاتا ہے "رُجَحٌ بِالسُّبْحِ" اس نے انکل بچے ہاتھیں کیں۔ القبر: نشان کے لئے پتھر لگانا۔

رُجَحٌ مَرُوحَةٌ: ایک دوسرے کو پتھراؤ کرنا۔ عَنِ قَوْمِهِ: مدافعت کرنا۔ ہ فی الخرب او الكلام او العدو: لڑائی یا گفتگو یا دوڑنے میں سخت مقابلہ کرنا۔

رُجَحٌ مَرُوحَةٌ: ایک دوسرے کو پتھراؤ کرنا۔ عَنِ قَوْمِهِ: مدافعت کرنا۔ ہ فی الخرب او الكلام او العدو: لڑائی یا گفتگو یا دوڑنے میں سخت مقابلہ کرنا۔

رُجَحٌ مَرُوحَةٌ: ایک دوسرے کو پتھراؤ کرنا۔ عَنِ قَوْمِهِ: مدافعت کرنا۔ ہ فی الخرب او الكلام او العدو: لڑائی یا گفتگو یا دوڑنے میں سخت مقابلہ کرنا۔

رُجَحٌ مَرُوحَةٌ: ایک دوسرے کو پتھراؤ کرنا۔ عَنِ قَوْمِهِ: مدافعت کرنا۔ ہ فی الخرب او الكلام او العدو: لڑائی یا گفتگو یا دوڑنے میں سخت مقابلہ کرنا۔

رُجَحٌ مَرُوحَةٌ: ایک دوسرے کو پتھراؤ کرنا۔ عَنِ قَوْمِهِ: مدافعت کرنا۔ ہ فی الخرب او الكلام او العدو: لڑائی یا گفتگو یا دوڑنے میں سخت مقابلہ کرنا۔

رُجَحٌ مَرُوحَةٌ: ایک دوسرے کو پتھراؤ کرنا۔ عَنِ قَوْمِهِ: مدافعت کرنا۔ ہ فی الخرب او الكلام او العدو: لڑائی یا گفتگو یا دوڑنے میں سخت مقابلہ کرنا۔

رُجَحٌ مَرُوحَةٌ: ایک دوسرے کو پتھراؤ کرنا۔ عَنِ قَوْمِهِ: مدافعت کرنا۔ ہ فی الخرب او الكلام او العدو: لڑائی یا گفتگو یا دوڑنے میں سخت مقابلہ کرنا۔

رُجَحٌ مَرُوحَةٌ: ایک دوسرے کو پتھراؤ کرنا۔ عَنِ قَوْمِهِ: مدافعت کرنا۔ ہ فی الخرب او الكلام او العدو: لڑائی یا گفتگو یا دوڑنے میں سخت مقابلہ کرنا۔

رُجَحٌ مَرُوحَةٌ: ایک دوسرے کو پتھراؤ کرنا۔ عَنِ قَوْمِهِ: مدافعت کرنا۔ ہ فی الخرب او الكلام او العدو: لڑائی یا گفتگو یا دوڑنے میں سخت مقابلہ کرنا۔

رُجَحٌ مَرُوحَةٌ: ایک دوسرے کو پتھراؤ کرنا۔ عَنِ قَوْمِهِ: مدافعت کرنا۔ ہ فی الخرب او الكلام او العدو: لڑائی یا گفتگو یا دوڑنے میں سخت مقابلہ کرنا۔

رُجَحٌ مَرُوحَةٌ: ایک دوسرے کو پتھراؤ کرنا۔ عَنِ قَوْمِهِ: مدافعت کرنا۔ ہ فی الخرب او الكلام او العدو: لڑائی یا گفتگو یا دوڑنے میں سخت مقابلہ کرنا۔

رُجَحٌ مَرُوحَةٌ: ایک دوسرے کو پتھراؤ کرنا۔ عَنِ قَوْمِهِ: مدافعت کرنا۔ ہ فی الخرب او الكلام او العدو: لڑائی یا گفتگو یا دوڑنے میں سخت مقابلہ کرنا۔

رُجَحٌ مَرُوحَةٌ: ایک دوسرے کو پتھراؤ کرنا۔ عَنِ قَوْمِهِ: مدافعت کرنا۔ ہ فی الخرب او الكلام او العدو: لڑائی یا گفتگو یا دوڑنے میں سخت مقابلہ کرنا۔

رُجَحٌ مَرُوحَةٌ: ایک دوسرے کو پتھراؤ کرنا۔ عَنِ قَوْمِهِ: مدافعت کرنا۔ ہ فی الخرب او الكلام او العدو: لڑائی یا گفتگو یا دوڑنے میں سخت مقابلہ کرنا۔

رُجَحٌ مَرُوحَةٌ: ایک دوسرے کو پتھراؤ کرنا۔ عَنِ قَوْمِهِ: مدافعت کرنا۔ ہ فی الخرب او الكلام او العدو: لڑائی یا گفتگو یا دوڑنے میں سخت مقابلہ کرنا۔

رُجَحٌ مَرُوحَةٌ: ایک دوسرے کو پتھراؤ کرنا۔ عَنِ قَوْمِهِ: مدافعت کرنا۔ ہ فی الخرب او الكلام او العدو: لڑائی یا گفتگو یا دوڑنے میں سخت مقابلہ کرنا۔

رُجَحٌ مَرُوحَةٌ: ایک دوسرے کو پتھراؤ کرنا۔ عَنِ قَوْمِهِ: مدافعت کرنا۔ ہ فی الخرب او الكلام او العدو: لڑائی یا گفتگو یا دوڑنے میں سخت مقابلہ کرنا۔

رُجَحٌ مَرُوحَةٌ: ایک دوسرے کو پتھراؤ کرنا۔ عَنِ قَوْمِهِ: مدافعت کرنا۔ ہ فی الخرب او الكلام او العدو: لڑائی یا گفتگو یا دوڑنے میں سخت مقابلہ کرنا۔

الرُّوحُ: چوڑے پیالے۔
الْأَرْحُ: بھرے لکڑے والا۔ مَوْنَسْرُ رَحَاءَ: رُحُ.

رُجَحٌ: (س) رُجَحًا و رُجَحًا (ک) رُجَحًا و رُجَحًا. الْمَكَانُ: جگہ کشادہ ہونا۔ صفت (رُجَحٌ و رُجَحٌ و رُجَحٌ) اور کہا جاتا ہے "رُجَحٌ الْأَمْرُ" یعنی معاملہ تمہارے لئے وسیع ہے (اور یہ شاذ ہے۔)

رُجَحٌ: الْمَكَانُ: کشادہ کرنا۔ (.....) بہ مَرُوحَةً: بہتر طریقہ سے استقبال کرنا۔ خوش آمدید کہنا۔ مر جا کہنا۔

أَرْحَبُ: الْمَكَانُ: کشادہ ہونا۔ الْمَكَانُ: کشادہ کرنا اور کہا جاتا ہے "أَرْحَبُ يَا وَلَدُ" یعنی اے لڑکے کے ہٹ جا۔ تَرَاخَبٌ: کشادہ ہونا۔

الرُّجْحُ: کشادہ۔ کہا جاتا ہے "مَكَانٌ رُجْحٌ وَأَرْضٌ رُحْبَةٌ" کشادہ جگہ و کشادہ زمین۔ "وَرُحْبُ الصَّدْرِ" کشادہ دل۔ "وَرُحْبُ الْفَهْمِ" زیادہ عقل والا۔ "وَرُحْبُ الْبَاعِ" او الذراع: "فياض - نخی۔

الرُّجْحِيُّ: سب سے چوڑی پیلی۔ الرُّحْبَانُ: بغل سے متصل دونوں طرف کی پیلیاں۔ السُّرْحِيَّةُ و السُّرْحِيَّةُ: کشادہ زمین جس میں بکثرت گھاس ہو اور بہت لوگ آئے ہوں۔ مَكَانٌ: مکان کا گھن۔ مِّنَ الْوَادِي: وادی کے دونوں جانب پانی بہنے کی جگہ۔ رُجْحٌ و رُحْبٌ و رُحْبَانٌ و رُحْبَانٌ و رُحْبَانٌ و رُحْبَانٌ۔

الرُّجْحِيُّ: بہت کھانے والا۔ التُّرْحَابُ: خوش آمدید۔ رُحْبَانٌ: النُّجُومُ: کشادہ اطراف۔ واحد رُحْبَانَةٌ۔

الرُّجْحِيُّ: کشادگی اور مسافر سے خوش آمدید کہنے کے موقع پر کہا جاتا ہے "بِسْرُحْبَيْكَ" یعنی تم نے کشادگی پائی۔ "وَمَرُوحَتِكَ اللَّهُ وَمَسْهَلُكَ" اللہ تم کو

الرُّجْحِيُّ: کشادگی اور مسافر سے خوش آمدید کہنے کے موقع پر کہا جاتا ہے "بِسْرُحْبَيْكَ" یعنی تم نے کشادگی پائی۔ "وَمَرُوحَتِكَ اللَّهُ وَمَسْهَلُكَ" اللہ تم کو

الرُّجْحِيُّ: کشادگی اور مسافر سے خوش آمدید کہنے کے موقع پر کہا جاتا ہے "بِسْرُحْبَيْكَ" یعنی تم نے کشادگی پائی۔ "وَمَرُوحَتِكَ اللَّهُ وَمَسْهَلُكَ" اللہ تم کو

رُجَحٌ مَرُوحَةٌ: ایک دوسرے کو پتھراؤ کرنا۔ عَنِ قَوْمِهِ: مدافعت کرنا۔ ہ فی الخرب او الكلام او العدو: لڑائی یا گفتگو یا دوڑنے میں سخت مقابلہ کرنا۔

رُجَحٌ مَرُوحَةٌ: ایک دوسرے کو پتھراؤ کرنا۔ عَنِ قَوْمِهِ: مدافعت کرنا۔ ہ فی الخرب او الكلام او العدو: لڑائی یا گفتگو یا دوڑنے میں سخت مقابلہ کرنا۔

رُجَحٌ مَرُوحَةٌ: ایک دوسرے کو پتھراؤ کرنا۔ عَنِ قَوْمِهِ: مدافعت کرنا۔ ہ فی الخرب او الكلام او العدو: لڑائی یا گفتگو یا دوڑنے میں سخت مقابلہ کرنا۔

رُجَحٌ مَرُوحَةٌ: ایک دوسرے کو پتھراؤ کرنا۔ عَنِ قَوْمِهِ: مدافعت کرنا۔ ہ فی الخرب او الكلام او العدو: لڑائی یا گفتگو یا دوڑنے میں سخت مقابلہ کرنا۔

رُجَحٌ مَرُوحَةٌ: ایک دوسرے کو پتھراؤ کرنا۔ عَنِ قَوْمِهِ: مدافعت کرنا۔ ہ فی الخرب او الكلام او العدو: لڑائی یا گفتگو یا دوڑنے میں سخت مقابلہ کرنا۔

رُجَحٌ مَرُوحَةٌ: ایک دوسرے کو پتھراؤ کرنا۔ عَنِ قَوْمِهِ: مدافعت کرنا۔ ہ فی الخرب او الكلام او العدو: لڑائی یا گفتگو یا دوڑنے میں سخت مقابلہ کرنا۔

رُجَحٌ مَرُوحَةٌ: ایک دوسرے کو پتھراؤ کرنا۔ عَنِ قَوْمِهِ: مدافعت کرنا۔ ہ فی الخرب او الكلام او العدو: لڑائی یا گفتگو یا دوڑنے میں سخت مقابلہ کرنا۔

رُجَحٌ مَرُوحَةٌ: ایک دوسرے کو پتھراؤ کرنا۔ عَنِ قَوْمِهِ: مدافعت کرنا۔ ہ فی الخرب او الكلام او العدو: لڑائی یا گفتگو یا دوڑنے میں سخت مقابلہ کرنا۔

رُجَحٌ مَرُوحَةٌ: ایک دوسرے کو پتھراؤ کرنا۔ عَنِ قَوْمِهِ: مدافعت کرنا۔ ہ فی الخرب او الكلام او العدو: لڑائی یا گفتگو یا دوڑنے میں سخت مقابلہ کرنا۔

رُجَحٌ مَرُوحَةٌ: ایک دوسرے کو پتھراؤ کرنا۔ عَنِ قَوْمِهِ: مدافعت کرنا۔ ہ فی الخرب او الكلام او العدو: لڑائی یا گفتگو یا دوڑنے میں سخت مقابلہ کرنا۔

<p>وَرَحْلَةً مَضْبُوطَةٌ قَوِيٌّ أَوْنَتْ - السَّرَجِيلُ: مِصْرٌ - كَوَجٌ - أَوْنَتْ جَسَ بَرَكَاوَهُ كَمَا سَجَانِي - جَمَلٌ رَجِيلٌ وَنَاقَةٌ رَجِيلَةٌ: جَلَّتْ فِي قَوِيٍّ أَوْنَتْ - السَّرَاجِلُ: فَاجٌ رَاجِلُونَ. وَرُحْلٌ وَرُحَالٌ.</p>	<p>عَنِ الْمَكَّانِ: تَرَكَ وَطْنَ كَرْنَا..... إِلَى الْمَكَّانِ: بِنَقْلِ هَوْنًا..... الْبَعِيرُ: كِبَاوَهُ كَسْنَا - سَوَارِ هَوْنًا كَمَا جَانَا بِي "رَحَلْتُ لَهُ نَفْسِي" مِثْلَ نَفْسِي لَمْ يَكُنْ يَكْتَلِفُ بِرُحْبَرِ كَيْفَا..... ه بِالسَّنِيفِ: كَيْفَا بِرُكُوعِ الرَّهْمَانِ..... الْبِلَادُ: بُحْرَانًا - مَكُورَانًا -</p>	<p>کمانا اور نرم زمین میں اتارے۔ "أَهْلًا رَمَضْرَحِيًّا" یعنی اپنے لوگوں میں نازل ہوئے اور کشادگی پائی اس لئے مانوس ہو جاؤ۔ وحشت مت کرو اور بددعا کے موقع پر کہا جاتا ہے "لَا مَرَّ حَبَابِكُ". رَحْرَحٌ: مَرَادُ كِي كِهْرَانِي كُونَه بِنَهْنِمَا..... الشَّيْ عَنْ فُلَانٍ: كِهْمِيَانَا..... بِالْكَلامِ: وَاشْخِ كَلامِ نَه كِرْنَا -</p>
<p>السَّرَاجِلَةُ: مِنَ الْإِبِلِ: سَوَارِي كَاللَّاقِ أَوْنَتْ - سَفَرٌ وَبَارِبْرَدَارِي كَلِ لِي مَضْبُوطِ أَوْنَتْ أَوْ أَوْفِي (تَا مَبَانِفِ كَلِ لِي هِي) فَج رَوَاجِلٌ.</p>	<p>رَحَلَهُ: كَوَجٌ كَرَانًا - كَوَجٌ كَرْنَا فِي مِثْلِ كُوشِشِ كِرْنَا..... الْفُؤَبُ: نَقْشٌ وَنُكَارٌ كَرْنَا - رَاحِلَةٌ: كَوَجٌ كَرْنَا فِي مِثْلِ مَدَدِيَانَا - أَرَحَلٌ: سَوَارِي كَلِ كِهْمَتِ جَانُورِ الْوَالَا هَوْنًا.....</p>	<p>تَرْحِيحُ: الْفَرْسُ: كِهْمُورِي كَا مِيشَابِ كَلِ لِي تَا كِلِي مِيشَابَانَا - السَّرْحَرُحُ وَالسَّرْحَرَاخُ وَالسَّرْحَرَاخَانُ: مِيشَابَانَا هَوَا - كَشَادَه - اَتَهْمَلَا - تَهْمُورِي كِهْرَانِي الْوَالَا - أَوْ كَمَا جَانَا بِي "عَيْشٌ رَحْرَحٌ وَرَحْرَاخٌ" يعني آسودہ و فراخ زندگی -</p>
<p>السَّرْحَالَةُ: بَغْيَرٌ كَلِزِي كَلِ مَرْفِ كِهْمَتِ زَيْن - فَجَ رَحَالٌ. الْأَرَحَلُ: مِنَ الْغَيْلِ وَالشَّاءِ: سَفِيدٌ مِيشَابَانَا كِهْمُورِي كَبْرِي -</p>	<p>السَّرْحَالَةُ: مِيشَابَانَا كَا كَلِزُورِي وَلا غَرِي كَلِ كِهْمَتِ مِيشَابَانَا مَضْبُوطِ هَوْنًا..... ه: سَوَارِي دِيَانَا - الْإِبِلُ أَوْ السَّنَاقَةُ: أَوْنَتْ يَا أَوْفِي كَوَسَوَارِي كَلِ لِي مَدَدَانَا -</p>	<p>رَحْرَحٌ: (ف) رَحْرَحًا وَرَحْرَحًا الْفُؤَبُ: كِهْمُورِي هَوْنًا - رَحْرَحٌ: الْمَضْمُومُ: مِيشَابَانَا - إِرْحَحُحُ: الرَّحْلُ: رَسُو هَوْنًا - فُؤَبٌ (رَحْرَحٌ): كِهْمُورِي جَوْدِ هَوْنًا جَانِي مِيشَابَانَا تِكَلِ كَلِ پَرَانَا هَوْنًا جَانِي - السَّرْحَحُحُ: مِيشَابَانَا پَرَانَا تَهْمُورِي دَان -</p>
<p>السَّرْحَالُ: كِبَاوَهُ بِنَانِي الْوَالَا - كِهْمَتِ مَرْفِ كَلِ لِي الْوَالَا - فَجَ رَحَالَةٌ. السَّرْحَالَةُ: كِهْمَتِ مَرْفِ كَلِ لِي الْوَالَا - السَّرْحَالُ: كِهْمَتِ مِيشَابَانَا هَوْنًا الْوَالَا - السَّرْحَالُ: كِهْمَتِ مِيشَابَانَا هَوْنًا الْوَالَا - السَّرْحَالَةُ: مَسَاكِرُ كَلِ كِي دَان كَا مَرْفِ - فَجَ مَرْجَالٌ.</p>	<p>تَرْحَلُ: الْقَوْمُ عَنِ الْمَكَّانِ: بِنَقْلِ هَوْنًا - فَلَانَا: كَلِ كَلِ مَسَاكِرُ تَا مِيشَابَانَا دِيَانَا سِي مِيشَابَانَا آنَا - إِرْحَلُ: عَنِ الْمَكَّانِ: بِنَقْلِ هَوْنًا - كَوَجٌ كِرْنَا..... الْبَعِيرُ: كِبَاوَهُ كَسْنَا - سَوَارِ هَوْنًا -</p>	<p>رَحْرَحٌ: الْمَضْمُومُ: مِيشَابَانَا - إِرْحَحُحُ: الرَّحْلُ: رَسُو هَوْنًا - فُؤَبٌ (رَحْرَحٌ): كِهْمُورِي جَوْدِ هَوْنًا جَانِي مِيشَابَانَا تِكَلِ كَلِ پَرَانَا هَوْنًا جَانِي - السَّرْحَحُحُ: مِيشَابَانَا پَرَانَا تَهْمُورِي دَان -</p>
<p>السَّرْحَالُ: كِهْمَتِ مَرْفِ كَلِ لِي الْوَالَا - السَّرْحَالَةُ: مَسَاكِرُ كَلِ كِي دَان كَا مَرْفِ - فَجَ مَرْجَالٌ. السَّرْحَالُ: كِهْمَتِ مَرْفِ كَلِ لِي الْوَالَا - السَّرْحَالَةُ: مَسَاكِرُ كَلِ كِي دَان كَا مَرْفِ - فَجَ مَرْجَالٌ. السَّرْحَالُ: كِهْمَتِ مَرْفِ كَلِ لِي الْوَالَا - السَّرْحَالَةُ: مَسَاكِرُ كَلِ كِي دَان كَا مَرْفِ - فَجَ مَرْجَالٌ.</p>	<p>السَّرْحَالَةُ: كِهْمَتِ مَرْفِ كَلِ لِي الْوَالَا - السَّرْحَالَةُ: مَسَاكِرُ كَلِ كِي دَان كَا مَرْفِ - فَجَ مَرْجَالٌ. السَّرْحَالُ: كِهْمَتِ مَرْفِ كَلِ لِي الْوَالَا - السَّرْحَالَةُ: مَسَاكِرُ كَلِ كِي دَان كَا مَرْفِ - فَجَ مَرْجَالٌ.</p>	<p>السَّرْحَالَةُ: مَسَاكِرُ كَلِ كِي دَان كَا مَرْفِ - فَجَ مَرْجَالٌ. السَّرْحَالُ: كِهْمَتِ مَرْفِ كَلِ لِي الْوَالَا - السَّرْحَالَةُ: مَسَاكِرُ كَلِ كِي دَان كَا مَرْفِ - فَجَ مَرْجَالٌ.</p>
<p>السَّرْحَالُ: كِهْمَتِ مَرْفِ كَلِ لِي الْوَالَا - السَّرْحَالَةُ: مَسَاكِرُ كَلِ كِي دَان كَا مَرْفِ - فَجَ مَرْجَالٌ. السَّرْحَالُ: كِهْمَتِ مَرْفِ كَلِ لِي الْوَالَا - السَّرْحَالَةُ: مَسَاكِرُ كَلِ كِي دَان كَا مَرْفِ - فَجَ مَرْجَالٌ.</p>	<p>السَّرْحَالَةُ: مَسَاكِرُ كَلِ كِي دَان كَا مَرْفِ - فَجَ مَرْجَالٌ. السَّرْحَالُ: كِهْمَتِ مَرْفِ كَلِ لِي الْوَالَا - السَّرْحَالَةُ: مَسَاكِرُ كَلِ كِي دَان كَا مَرْفِ - فَجَ مَرْجَالٌ.</p>	<p>السَّرْحَالَةُ: مَسَاكِرُ كَلِ كِي دَان كَا مَرْفِ - فَجَ مَرْجَالٌ. السَّرْحَالُ: كِهْمَتِ مَرْفِ كَلِ لِي الْوَالَا - السَّرْحَالَةُ: مَسَاكِرُ كَلِ كِي دَان كَا مَرْفِ - فَجَ مَرْجَالٌ.</p>
<p>السَّرْحَالُ: كِهْمَتِ مَرْفِ كَلِ لِي الْوَالَا - السَّرْحَالَةُ: مَسَاكِرُ كَلِ كِي دَان كَا مَرْفِ - فَجَ مَرْجَالٌ. السَّرْحَالُ: كِهْمَتِ مَرْفِ كَلِ لِي الْوَالَا - السَّرْحَالَةُ: مَسَاكِرُ كَلِ كِي دَان كَا مَرْفِ - فَجَ مَرْجَالٌ.</p>	<p>السَّرْحَالَةُ: مَسَاكِرُ كَلِ كِي دَان كَا مَرْفِ - فَجَ مَرْجَالٌ. السَّرْحَالُ: كِهْمَتِ مَرْفِ كَلِ لِي الْوَالَا - السَّرْحَالَةُ: مَسَاكِرُ كَلِ كِي دَان كَا مَرْفِ - فَجَ مَرْجَالٌ.</p>	<p>السَّرْحَالَةُ: مَسَاكِرُ كَلِ كِي دَان كَا مَرْفِ - فَجَ مَرْجَالٌ. السَّرْحَالُ: كِهْمَتِ مَرْفِ كَلِ لِي الْوَالَا - السَّرْحَالَةُ: مَسَاكِرُ كَلِ كِي دَان كَا مَرْفِ - فَجَ مَرْجَالٌ.</p>
<p>السَّرْحَالُ: كِهْمَتِ مَرْفِ كَلِ لِي الْوَالَا - السَّرْحَالَةُ: مَسَاكِرُ كَلِ كِي دَان كَا مَرْفِ - فَجَ مَرْجَالٌ. السَّرْحَالُ: كِهْمَتِ مَرْفِ كَلِ لِي الْوَالَا - السَّرْحَالَةُ: مَسَاكِرُ كَلِ كِي دَان كَا مَرْفِ - فَجَ مَرْجَالٌ.</p>	<p>السَّرْحَالَةُ: مَسَاكِرُ كَلِ كِي دَان كَا مَرْفِ - فَجَ مَرْجَالٌ. السَّرْحَالُ: كِهْمَتِ مَرْفِ كَلِ لِي الْوَالَا - السَّرْحَالَةُ: مَسَاكِرُ كَلِ كِي دَان كَا مَرْفِ - فَجَ مَرْجَالٌ.</p>	<p>السَّرْحَالَةُ: مَسَاكِرُ كَلِ كِي دَان كَا مَرْفِ - فَجَ مَرْجَالٌ. السَّرْحَالُ: كِهْمَتِ مَرْفِ كَلِ لِي الْوَالَا - السَّرْحَالَةُ: مَسَاكِرُ كَلِ كِي دَان كَا مَرْفِ - فَجَ مَرْجَالٌ.</p>

.....الرُّجُلُ: مدد کرنا۔ رَدَاةٌ بِسَخْبَرٍ: پتھر مارنا۔

رَدُوْ: (ک) زڈافہ: رومی ہونا۔ صفت (رَدِي) ج اَزْدِيَاءُ وَاَزْدِيَاءُ.

اَزْدًا: بُرَاکام کرنا یا بُرِي چيز پہنچانا..... ہ: خراب کرنا۔ بگاڑنا..... السُّنْرُ: لٹکانا..... السَّخَابِطُ: دیوار کو تھم لگانا..... فَلَانًا: تسکین دینا۔ برقرار رکھنا..... غُلِي مَانِيَةً: زيادہ کرنا۔ بڑھانا۔

تَرَادَا: القَوْمُ: باہم مدد کرنا۔

السَّرْدَةُ: مددگار۔ مدد۔ ایک جانب کا بھاری بوجھ جو جانور پر لادیں۔ ج اَزْدَاءُ. تَرَدْبَةٌ: نرمی سے پیش آنا۔

الرُّدْبُ: راستہ جس کا آخری سرا بند ہو۔

الْاَزْدَبُ: چوبیس صاع کا ایک بڑا پیمانہ۔ سطح زمین پر بننے والی۔ ج اَزْدِبُ.

الْاَزْدَبَةُ: چوبچہ۔ بڑی اینٹ۔

رَدَخُ: (ف) اَزْدَخًا: ثابت قدم رہنا۔

السُّيُ: زمین پر پھیلا کر برابر کرنا۔ (وَاَزْدَخ) البَيْتُ: گاڑھا گاڑھا لینا۔

رَدَخُ السُّيُ: زمین پر پھیلا کر ہموار کرنا۔

الرِّزْحُ: مصل ہلکا درد۔

الرِّزْحُ: لمبی مدت کہا جاتا ہے "اَقَامَ رَدَخًا مِّنَ الدَّهْرِ" اس نے زمانہ دراز تک اقامت کی۔

الرِّزْحُ: بہت بڑا لشکر۔ تاریکی بڑا درخت۔ بڑا پیمانہ..... مِّنَ السَّجَّاشِ: بڑی چکی والا دنبہ۔ ج رَدَخُ.

الرِّزْحَةُ: خیمہ کے پھیلے حصہ کا پردہ۔ کشادگی رُوْحَةُ الصَّائِدِ: پتھر جن کو شکاری اپنے گھر کے ارد گرد دکھڑا کر لے۔

الرِّزْحَاةُ وَاَلرِّزْحَاةُ: بچو کے شکار کے لئے مکان۔

رَدَخُ: (ف) اَزْدَخًا. رَأْسُهُ: سر توڑنا۔

رَدَسُ: (ن ض) رَدَسًا. السَّقَوْمُ: پتھر

مارنا..... السَّخَابِطُ: گرانہ ڈھانا..... الرُّجُلُ

ذَمِيلٌ کرنا..... الْاَرْضُ: ہموار کرنا.....

بِالسُّيُ: لے جانا..... السَّخْبَرُ بِالسَّخْبَرِ: پتھر سے پتھر توڑنا۔

رَأْسُهُ: ایک دوسرے پر پتھر پھینکنا۔

تَرَدَسُ: مِّنَ مَّكَائِبِهِ: گرانہ۔

المِرْدَسُ وَاَلْمِرْدَاسُ: پتھر توڑنے کا آلہ۔ سر پتھر جو کونوں میں پانی معلوم کرنے کے لئے ڈالا جائے۔

رَجُلٌ (رَدُوْسٌ وِرْدِيْسٌ): بہت دفع کرنے والا۔

رَدَعَهُ: (ف) اَزْدَعًا. عَنِ مَخْدَا: روکنا۔ ہٹانا..... بِالسُّيُ: لتھیرنا۔ کہا جاتا ہے "اَخَذَهُ فَرَدَعٌ بِه الْاَرْضُ" اس نے لے کر زمین پر پلگ دیا۔

..... السَّهْمُ: تیر کے پھل کو بیٹھ جانے کے لئے زمین پر مارنا..... المَرَاةُ: جماع کرنا۔

رُدْعٌ: رَدْعَةٌ: خاموش ہونا اور چہرے کا رنگ زرد پڑ جانا۔ رُدْعٌ بِه: پچھاڑا جانا۔

رَدَعَهُ: بِالسَّعْفَانِ: زعفران میں لت پت کرنا۔

تَرَدَعٌ: لت پت ہونا۔

تَرَادَعُ: القَوْمُ: ایک دوسرے کو باز رکھنا۔

اِرْتَدَعُ: باز رہنا..... بِالسَّطِيبِ: خوشبو سے

لت پت ہونا..... السَّهْمُ: تیر کا نشانہ پر لگ کر ٹوٹنا۔

السَّرْدَعُ: مصل گردن۔ زعفران۔ جسم میں خوشبو کا اثر۔ کہا جاتا ہے "زَكَبَ فُلَانٌ رَدْعُهُ" جبکہ روکا جائے اور وہ نہر کے۔

و"زَكَبَ البَيْعُ رَدْعُهُ" جبکہ وہ گرجائے اور اس کی گردن اس کے جوف میں داخل ہو جائے۔

قَبِيضٌ (رَادِعٌ): تمبھ جس میں خوشبو کا اثر ہو۔

السَّرْدَاعُ: جسم میں خوشبو کا اثر۔ مرض کی وابستگی۔

الرَّدِيْعُ: پچھاڑا ہوا۔ ثَوْبٌ رَدِيْعٌ: زعفران سے رنگا ہوا کپڑا۔ السَّهْمُ (رَدِيْعٌ وِمِرْدَعٌ)

: تیر جس کا پھل گر گیا ہو۔

السَّرْدَعُ: محروم واپس آنے والا۔ کابل۔ پستہ قد۔ خوشبو کے اثر والا۔

الرَّدِيْعُ: چھوٹے بچے۔

رَدَعْتُ: (ف) اَزْدَعًا. السَّمَاءُ: تھوڑی

بارش برساتا۔ رَدَعٌ بِه الْاَرْضُ: پلگ دینا۔ اَزْدَعُ. المَكْحَانُ: بہت کچھ والی ہونا۔ صفت (رَدْعُ)

اِرْتَدَعُ: کچھ میں پڑنا۔

الرَّدْعُ وَاَلرِّدَاغُ: کچھ۔ گارا۔

الرَّدْعَةُ وَاَلسَّرْدَعَةُ: سخت کچھ۔ ج رَدْعٌ رَدْعٌ وِرْدَاغٌ. وِرْدَاغٌ. مَاءٌ رَدْعَةٌ: کچھ ملا ہوا پانی۔

الرَّدِيْعُ: پچھاڑا ہوا بے وقوف۔

المَرْدَعَةُ: گلے اور ہنسی کی ہڈی کے درمیان کا حصہ۔ عمدہ رُودُقُ بَاغٌ۔ ج مَرْدَاغٌ.

رَدَقَهُ (ف) وِرْدَفٌ لَه (س) اَزْدَقًا: پیچھے ہونا۔

رَدَقَهُ وِرْدَفٌ لَه: پیچھے سوار ہونا۔ ردیف بنا۔

رَدَفَ الامرُ القَوْمُ: پیش آنا۔

رَادَقَهُ: ردیف بنا۔ کہا جاتا ہے "ذَابَتْ لَهَا تَرَادِفٌ" جانور جو ردیف نہیں سوار کراتا۔

اَزْدَفُ: پے در پے ہونا..... ہ: اپنے پیچھے

سوار کرنا۔ کہا جاتا ہے "ذَابَتْ لَهَا تَرْدِفٌ" جانور جو ردیف کو نہیں سوار کرتا۔ اَزْدَفُ

: کسی چیز کے پیچھے کسی چیز کو کرنا۔ تم کہتے "اَزْدَفْتُ خَيْلًا غُلِي خَيْلِي لِي": میں نے اپنے گھوڑے کے پیچھے ایک گھوڑے کو کر لیا۔ اَزْدَفَ لَه: پیچھے آنا..... الامرُ القَوْمُ: پیش آنا۔

تَرَادَقَا: ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ ایک دوسرے کے پیچھے ہونا۔ ایک کا دوسرے کے پیچھے سوار ہونا۔ تَرَادَقَتِ الكَلِمَاتُ: کلمات کا ہم معنی ہونا۔

اِرْتَدَقَهُ: پیچھے ہونا۔ اِرْتَدَقَ العَدُوُّ: دشمن کو پیچھے سے پکڑنا..... ہ: اپنے پیچھے سوار کرنا۔

تَرَدَقَهُ: پیچھے سوار ہونا۔

السَّرْدَفَةُ: پیچھے سوار کرنے کی درخواست کرتا۔

السَّرْدَفُ: پیچھے سوار ہونے والا۔ بیرونی کرنے والا۔ کام کا نتیجہ۔ ہر چیز کا آخرفسی السجھاہلیۃ زمانۃ جاہلیت میں بادشاہ کا ہم نشین جو بادشاہ کی وہابی جانب بیٹھتا تھا اور تمام کاموں میں بادشاہ کا ثانی سمجھا جاتا تھا اگر بادشاہ جنگ میں چلا جایا کرتا تھا تو وہ بادشاہ کی قائم مقامی کرتا تھا اور جب فوج واپس آتی تھی تو مال غنیمت کی چوتھائی وصول کیا کرتا تھا۔ جِ اَرْدَافِ. السَّرْدَفُ: نرواق ستارہ کے قریب ایک ستارہ کا نام۔ الرُّدْفَانُ: رات دن۔

السَّرْدَفُ وَالرَّرْدَفُ. مِنَ الدَّابَّةِ: جانور کا چوڑا۔

السَّرْدِيفُ: سوار کے پیچھے سوار ہونے والا۔ جِ اَرْدَافِ وَرُدْفَاءَ: نرواق ستارہ کے قریب ایک ستارہ کا نام۔ وَالرَّرْدِيفُ فِی اصطلاح الجُنْدِیَّةِ: وہ فوجی جو آ زاد کر دیا جائے اور ضرورت کے وقت بلا لیا جائے۔

الرَّرْدِيفَةُ وَالرَّرْدَاوُفُ. رُوَادِفُ كَا وَاحِدٍ هُوَ اِبْرُوَادِفُ: درخت خرما کے اس پودے کو کہتے ہیں جو درخت خرما ہی پر لگ جائے اور اس کی جڑ زمین میں نہ ہو۔ کوہان کے پیچھے حصہ میں تہ بترجہی۔ اگر اگلے حصہ میں ہو تو اس کو رُوَاكِبٌ کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے "اِنَّ جَزُوْرَهُمْ لَذَاتُ رُوَاكِبٍ وَرُوَادِفٍ".

الرُّوَادِفُ: سُرین۔ پیچھے رہنے والی قوم۔ الرُّوَادِيفَةُ: بادشاہ کی قائم مقامی۔

الرُّدَافِي: مددگار لوگ۔ کہا جاتا ہے "جَاءُوا رُدَافِي" وہ لوگ آگے پیچھے آئے۔

رُوْدَكَّةٌ: آراستہ کرتا۔ خوبصورت بنانا۔ الرُّوْدَكُ: خوش شکل لڑکا۔ مَوْثَرُ رُوْدَكَّةٍ.

رَدَمٌ (ن) رَدَمًا. النَّمْلَةُ اوالبَابُ: رختیا دروازہ بند کرنا۔ القَوْسُ: کمان کو کھینچ کر آواز نکالنا۔ البَعِيْرُ: چھوٹا۔

رَدَمٌ (ن) رَدَمًا. الشَّيْءُ: بہنا۔

السَّحَابُ: ہمیشہ گھر رہنا۔ الحمى: ہمیشہ بخار رہنا۔ الشَّجْرَةُ: خشک ہونے کے بعد سبز ہونا۔ رُدْمُ الشَّيْءِ: کسی چیز کے ایک حصہ کو دوسرے کے ساتھ جوڑا جانا۔

أَرْدَمَ. السَّحَابُ: ہمیشہ گھر رہنا۔ الحمى عَلَيْهِ: ہمیشہ بخار رہنا۔

رَدَمَ. القَوْبُ: پیوند لگانا۔ السَّنَاقَةُ عَلَيَّ وَوَلَدَهَا: اونٹنی کا اپنے بچے پر مہربان ہونا۔

تَرَدَمَ. تَسْوَنُه: کپڑے میں پیوند لگانا۔ القَوْبُ: کپڑے کا بوسیدہ پرانا ہونا۔

السَّخْصُومَةُ: جھکڑے کا طویل ہونا۔ ہ: درپے ہو کر حقیقت معلوم کرنا۔ السَّنَاقَةُ عَلَيَّ وَوَلَدَهَا: اونٹنی کا اپنے بچے پر مہربان ہونا۔

السَّخْصُومَةُ: زمین کی پیداوار کو بار بار بارکھانا۔

الرُّدْمُ: ہمس دیوار کا لمبہ۔ کمان کی آواز۔ (.....) وَالرُّدَامُ وَالْمُرْدَامُ: ہر وہ چیز جو بے نفع ہو۔

الرُّدْمُ: رخت کی بندش۔ جِ رُدُوْمٌ. الرُّدِيمُ. مِنَ الْبِيَابِ: پرانا کپڑا۔ جِ رُدْمٌ. الأَرْدَمُ: ماہر ملاح۔ جِ الأَرْدَمُونُ.

قَوْبٌ (مُرْدَمٌ وَمُرْتَدَمٌ): پرانا کپڑا پیوند لگانا ہوا۔

الرُّدْمُ: پیوند لگائی ہوئی جگہ۔ زمانہ جاہلیت کے شاعر عتیرہ کے قول "هَلْ غَادَرَ الشُّعْرَاءُ مِنْ مُرْتَدَمٍ": کا مطلب یہ ہے کہ پہلے شعراء نے کیا کوئی جگہ پیوند لگانے کی باقی چھوڑی ہے یعنی سب کچھ کہہ گئے ہیں اب کسی شاعر کے لئے کوئی چیز باقی نہیں رہی کہ اس پر کچھ کہہ سکے۔

رَدَنَ (ض) رَدْنًا. الاشیاء: تہ بترکھنا۔ المرأةُ: نکلے پرکاتنا۔ السَّارُ: آگ سلگانا۔

رَدَنَ (س) رَدْنًا. الجِلْدُ: سکرنا۔ رَدَنَ وَأَرَدَنَ. القَمِيصُ: آستین لگانا۔

أَرْدَنْتُ الحمى: بخار کا مدت تک رہنا۔ اِرْتَدَنْتُ. المرأةُ: نکلا بنانا۔

السَّرْدُنُ: آستین کی جڑ۔ آستین کا کشادہ کنارہ۔ عرب اسی میں درانم و دانیز رکھا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے محاورہ ہو گیا "ثَقُلَ رَدْنُهُ" یعنی وہ مالدار ہو گیا۔ جِ اَرْدَانُ.

الرَّدْنُ: ہمس۔ ہتھیار کی جھنکار۔ الرَّدْنُ: سوت۔ ریشم۔ جِ اَرْدَانُ. الرِّادِنُ: قاضی زعفران۔

احمر (زادینی): سرخ جس میں زردی ملی ہو۔ الارْدَنُ: ایک قسم کا سرخ رنگ کا ریشم۔ السُّوْدَيْنِيُّ: نیزہ۔ روینہ نامی عورت کی جانب منسوب جو عمدہ نیزہ بنانے میں مشہور تھی۔

المِرْدَنُ: نکلا۔ السُّوْدَنُ: تاریک۔ اندھیرے والا۔ عرق سُودِنُ: بدبودار پسینہ۔

خَيْطٌ (مَرْدُونٌ): ملایا ہوا دھاگا۔ رَدَّةٌ (ف) اَرْدَفًا. فِلاَنًا بحجر: سنگسار کرنا۔ البَيْتُ بَرَامَكَانَ بنانا۔

رَدَّةٌ. السَّرْجُلُ: شجاعت یا سخاوت وغیرہ کی وجہ سے سردار قوم بننا۔ الرَّدَّةَةُ: بیہار یا چٹان کا گڑھا جس میں بارش کا پانی جمع ہو جائے سب سے بڑا گھر۔ گھر کی سب سے کشادہ جگہ۔ جِ رَدَّةٌ وَرَوَاهُ وَرَدَّةٌ.

رَدِي (ض) رَدِيًا وَرَدِيَانًا. الشَّيْءُ: توڑنا۔ ہ: دکھانا۔ ہ: بختیج: پتھر مارنا۔ القَرَسُ: گھوڑے کا اچھلتے ہوئے دوڑنا۔

التَّجَارِيَةُ: لڑکی کا ایک پاؤں اٹھا کر دوسرے پاؤں سے اچھلتے ہوئے چلنا۔ فُلَانٌ: جانا۔ تم کہتے ہو "مَسْأَلِي أَيْنَ رَدِي" میں نہیں جانتا کہاں گیا۔ فِی البُغْرِ: کنوئیں میں گرنا۔ فُلَانٌ: بلند پہاڑ سے گرنا۔

عَلَى الخَمْسِيْنَ مِنْ عُمْرِهِ: زائد ہونا۔ رَدِي (س) رَدِيًا: ہلاک ہونا۔ گرنا۔

رَدِي. الرُّجُلُ: ہلاک کرنا۔ چادر اڑھانا۔ ہ: فِی البُغْرِ: کنوئیں میں گرا۔

مَالُهُ: زیادہ ہونا۔ عَلَيَّ الخَمْسِيْنَ: زائد

ہونا..... القوس: کدانا۔	ہوتا..... ہ: حقیر کرنا ناپسند کرنا حقیر سمجھنا۔	الخائط: تیر کو دیوار میں گاڑنا۔
زادى مُرَادَاة. الرُّجْلُ: بھسلانا۔ نری برتا..... عن القوم: کسی قوم کی جانب سے دوسروں پر پھراؤ کرنا۔	الذَّاهِمُ: کھوئے کر کے واپس کرنا۔	أَزْرَتْ. الْجِرَادَةُ: مٹی کا اٹھنے دینے کے لئے دُم کو زمین میں چھینونا۔
تَرَدَى: چادروڑھانا۔ تَرَدَى فِى البئر: کنوئیں میں گرنا۔	الرُّذَالُ: حقیر و کمینہ..... والرُّذَالَةُ: چیز کا ردی حصہ۔ رُذَالَةٌ كَمَلَى شَيْءٍ: ہر چیز کا گھٹیا۔	رَزَزَ. السُّورِقُ: کاغذ کو چھٹکانا۔
إِرْتَدَى: چادروڑھنا۔ گلے میں تلوار لٹکانا۔	الرُّذَيْلَةُ: نالائقی۔ بری عادت۔ جَزَائِلُ. الأَزْدَلُ: اسم تفضیل۔ گھٹیا۔ ردی۔ جَزَائِلُ وَأَزْدَلُونَ.	الأمر: کسی معاملہ کو درست کرنا۔
إِرْتَدَتْ الحَارِيَةُ: لڑکی کا ایک پاؤں اٹھا کر دوسرے پاؤں سے اچکتے ہوئے چلنا۔	السُّرْدِيلُ: رذیل ساتھیوں والا یا حقیر جانور والا۔	إِرْتَضَى. السُّرَّةُ: دور کی آواز۔ پیٹ کی گڑ گڑاہٹ۔ بادل کی گرج۔ آواز۔
السُّرْدَاءُ: چادر۔ عبا یا جبکی مانند اوپر کی پوش۔ جمیل۔ تلوار۔ کمان۔ عقل۔ نادالی۔ باعث زینت۔ باعث عیب۔ رِدَاءُ الشَّيَابِ: جوانی کی رونق۔ رِدَاءُ الشَّمْسِ: آفتاب کی روشنی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ غَمْرُ الرِّدَاءِ" وہ فیاض اور بھلائی کرنے والا ہے "خَفِيفُ الرِّدَاءِ" وہ کم مقروض اور کم عمال والا ہے۔ جَزَائِدِيَّةٌ.	الرُّذَمُ وَالرُّذَمَانُ: من النَّاسِ: متفرق جماعت۔ کہا جاتا ہے "رُذَيْمٌ رُذَمَانٌ" بہتا۔ صفت (رُذَم) وَأَرْدَمٌ عَلَى الخَمْسِينَ مِنْ عُصْبِهِ: زائد ہونا۔	السُّرَّةُ: زنجیر کا حلقہ جس میں تالا لگایا جاتا ہے۔ کنڈا جس کو دیوار یا زمین میں گھوڑا وغیرہ باندھنے کے لئے ٹھونکتے ہیں۔ جَزَائِدِيَّةٌ وَأَزْدَلُونَ.
الرِّدَاءَةُ: بڑی چادر۔	السُّرْمُ وَالرُّذَمَانُ: کمزور جس میں مروت نہ ہو۔	السُّرَّةُ: پیٹھ میں ایک قسم کا درد۔
الرِّدَاةُ: چٹان۔ جَزَدِي. الرِّدِي: ہلاک ہونے والا۔	السُّرْدُومُ: بچنے والا۔ لبالب پیالہ جس میں سے گرے۔ جَزَدٌ وَرُذَمٌ.	السُّرَّةُ: بچھڑے کی کھٹیا۔ بچھڑے کی کھٹیا۔ بچھڑے کی کھٹیا۔ بچھڑے کی کھٹیا۔
السُّرْدَاةُ: لڑائی کا چکر اور اسی سے ہے "طَخْنَتُهُ مِرْوَاةٌ طَخُونٌ" لڑائی کے چکر نے اسے پس کر رکھ دیا..... والسُّرْدَاةُ: بڑی چادر۔ ازار۔ پتھر توڑنے کا پتھر۔ جَزَادِي. السُّرَادِي: گھوڑے یا اونٹ کی ٹانگیں زمین پر پاؤں کو چپکنے والا گھوڑا۔ السُّرَادِي: ہاتھی۔	السُّرْمَةُ: التَّوْفِيقِيَّةُ (علم ہندسہ)۔ چار سیدھے نقاط جو ایک موافق تقسیم نقطہ پر پہنچے۔	السُّرَّةُ: چھوٹے بچھڑے کی کھٹیا۔ بچھڑے کی کھٹیا۔ بچھڑے کی کھٹیا۔ بچھڑے کی کھٹیا۔
رَذَّتْ (ن) كِرْدَاذَا وَأَرَذَّتْ. السَّمَاءُ: پھوار برسانا۔ وَأَرَذَّتْ القُرْبَانَةُ: بہہ پڑنا۔ الرُّذَاةُ: پھوار۔	السُّرْمَةُ: بچھڑے کی کھٹیا۔ بچھڑے کی کھٹیا۔ بچھڑے کی کھٹیا۔ بچھڑے کی کھٹیا۔	السُّرَّةُ: چھوٹے بچھڑے کی کھٹیا۔ بچھڑے کی کھٹیا۔ بچھڑے کی کھٹیا۔ بچھڑے کی کھٹیا۔
رَذَلٌ (ك) رَذَلٌ (س) رَذَالَةٌ: قابلِ حقارت ہونا۔ نتیج ہونا۔ صفت (رَذَلٌ): جَزَالٌ وَرَذَالٌ وَرَذُولٌ وَرَذُلُونَ وَرَذِيلٌ) جَزَالٌ وَرَذَالٌ.	السُّرْمَةُ: بچھڑے کی کھٹیا۔ بچھڑے کی کھٹیا۔ بچھڑے کی کھٹیا۔ بچھڑے کی کھٹیا۔	السُّرَّةُ: چھوٹے بچھڑے کی کھٹیا۔ بچھڑے کی کھٹیا۔ بچھڑے کی کھٹیا۔ بچھڑے کی کھٹیا۔
رَذَلَةٌ (ن) رَذَلَةٌ وَأَرَذَلَةٌ: حقیر کرنا۔ ناپسند کرنا۔ حقیر سمجھنا۔	السُّرْمَةُ: بچھڑے کی کھٹیا۔ بچھڑے کی کھٹیا۔ بچھڑے کی کھٹیا۔ بچھڑے کی کھٹیا۔	السُّرَّةُ: چھوٹے بچھڑے کی کھٹیا۔ بچھڑے کی کھٹیا۔ بچھڑے کی کھٹیا۔ بچھڑے کی کھٹیا۔
أَرَذَلٌ: بُرَا کام کرنا۔ کینوں کا ساتھی	السُّرْمَةُ: بچھڑے کی کھٹیا۔ بچھڑے کی کھٹیا۔ بچھڑے کی کھٹیا۔ بچھڑے کی کھٹیا۔	السُّرَّةُ: چھوٹے بچھڑے کی کھٹیا۔ بچھڑے کی کھٹیا۔ بچھڑے کی کھٹیا۔ بچھڑے کی کھٹیا۔

<p>المُرْوَا: فِیاضٌ حِی - ج مَرُوؤُون. والمُرْوُوُون: قوم جس کے منتخب لوگ مر گئے ہوں۔ المُرْوُوقَة: بڑی مصیبت۔ رُزْبَة: (ن) رُزْبَا: چھٹے رہنا۔ الارزُب: چھوٹا۔ بڑے ذیل ذول والا۔ المِرْوُوبَة والمِرْوُوبَة: بوسے کی سلاخ۔ لوہار کا ہتھوڑا۔ ج مِرْوَاب۔ المِرْوَاب: پرنا۔ بڑی یا لمبی کشتی۔ ج مِرْوَاب۔</p>	<p>المُسْتَحْفِرُ: کھونے والے کا ٹمناک مٹی تک پہنچنا..... السَطْرُ الارض: بارش کا زمین کو تر کر دینا..... الرَجُلُ: عیب سے آلودہ کرنا..... فِی فلان: بہت تکلیف پہنچانا..... حَتَارَت کرنا: عیب لگانا..... طعن و تشنیع کرنا۔ رَاذِغُه: کشتی کرنا اور فریب دینا۔ إِسْتِرْزَعَة: کمزور سمجھنا۔ السِرْزَعَة: پتلا گارا۔ کچڑ۔ ج دُرُغ و دِرَاع۔ الرُوزِغ: تری۔ الرُوزِغ و الرُوزَاغ: کچڑ میں پھنسا ہوا۔</p>	<p>جائے۔ السُّورُوقَة: وہ لوگ جنہوں نے اپنی رسم حاصل کر لی ہو۔ المُرْوُوق: مفتح خوش نصیب۔ رُزَم: (ن) رُزْمَا: الشی جمع کر کے باندھنا..... بالشئی: پکڑنا..... عُلَى غَدْوَة: دشمن پر غالب ہونا اور چڑھ بیٹھنا..... الرَجُلُ: مرنا..... الاُمُّ بہ: جنانہ۔ رُزَم: (ض) رُزْمَا و رُزْمَا۔ السُّعُور: اونٹ کا لاغری کی وجہ سے سخت سکتا۔ صفت (رازم) ج رُزَام (..... رُزْمَة) الشتاء: سرد ہونا۔</p>
<p>المُرْوَابَان: فارسیوں کا رئیس۔ ج مِرْوَابَة و المِرْوَابَة: فارسیوں کی سرداری۔ رُوح: (ف) رُوحَا و رُزُوْحَا و رُزَاْحَا. الجَمَلُ: لاغری یا ٹھکن کی وجہ سے گمراہ جانا۔ صفت (رازح) ج رُوح..... السَّرْجُلُ: کمزوری کی وجہ سے ہاتھ کی چیز چھوٹ جانا..... السَّرْجُلُ بالرُّمُح: نیزہ مارنا (..... و ازح) العنب: گمراہ ہونے انھور اٹھانا (رُوح و تراوح) حالہ: برا حال ہونا۔</p>	<p>رُزَف (ض) رُزَيْفَا و رُزَف و اُرُزَف إِلَیْہ: آگے بڑھنا..... الجَمَلُ: اونٹ کا بلبانا۔ دوڑنا۔ رُزَف الامس: قریب ہونا۔ أُرُزَف السَّافَة: ڈلکی چلانا۔ اُرُزَف القَوْمُ: جلدی سے شکست وغیرہ میں پھنسانا۔ نَاقَة (رُزُوف): کشادہ قدم تیز رفتار اونٹنی۔ رُزَافَات: البلد: شہر کے قریب کی جگہیں۔ رُزَقَة: (ن) رُزَقَا: روزی پہنچانا۔ کہا جاتا ہے "رُزَقَہ اللہ الغنی" اللہ سے تو انگری دے۔ رُزُق: روزی پانا۔ خوش نصیب ہونا۔ إِرْسُوقَة: روزی مانگنا..... السُّجُنَة: روزی لینا۔ إِسْتِرْزَقَة: روزی مانگنا۔</p>	<p>رُزَم: الیباب: کپڑوں کا گھڑی میں باندھنا۔ القَوْمُ: کسی جگہ میں چٹ کر رہنا۔ رُزَام: یینہنا: جمع کرنا..... فِی المَطَاعِم: بدل بدل کر کھانا کھانا..... الدار: دیر تک رہنا۔ أُرُزَم: الرُعْد: تخت لڑ جانا۔ اُرُزَمَت الناقَة: بچے کے لئے آواز نکالنا۔ کہا جاتا ہے "لَا فَعْلَہ مَا أُرُزَمَت أُم حائل" میں اس کام کو جب تک اونٹنی آواز نکالتی رہے گی نہیں کروں گا۔</p>
<p>المُرْوُوح: ہموار زمین۔ المِسْرُوح و المِسْرُوحَة: اٹھور کی تیل کو زمین سے اٹھانے کے لئے لکڑی۔ ج مِسْرَاِح۔ المِسْرُوح: آواز۔ المِسْرُوح: من الاجل: بہت ہی لاغر اونٹ جو بٹنے کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو۔ ج مِسْرَاِیح۔</p>	<p>رُزَخَة (ف) رُزَخَا. بالرُّمُح: نیزہ چھوٹا۔ السَّرْدَق: لوگوں کی صف۔ درخت خرما کی قطار (جدید) السَّرْدَاق: دیہات اور اس کے ارد گرد کی زمینیں۔ ج رُزْدَاقَات و رُزْدَاقِی۔ أُرُزَع: المَمَاء: پانی کم ہونا..... السَّيْکَان: بہت کچڑ والی جگہ ہونا.....</p>	<p>إِرْسُوقَة: روزی مانگنا..... السُّجُنَة: روزی لینا۔ الرُزُق: روزی۔ ج اُرُزَاق: بارش۔ السَّرْدَقِ الحسن: بغیر محنت و مشقت کے حاصل ہونے والی روزی (..... و الرُزَقَة) ج رُزَقَات: سپاہیوں کی رسم۔ کہا جاتا ہے "أَخَذْتُ رُزَقَة. هَذَا الشَّهْرُ او هَذَا العَام" میں نے اس مہینے یا اس سال کی رسم لے لی۔ السَّرْدَقِی: کمزور۔ ایک قسم کا لمبا سفید انھور۔ شراب۔ الرُزْدَقِیَة: کتال کے سفید کپڑے۔ شراب۔ السَّرْدَاقِ: روزی دینے والا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ہے (صرف باری تعالیٰ پر اطلاق ہوتا ہے)</p>
<p>المِسْرُوح: ہموار زمین۔ المِسْرُوحَة: دیہات اور اس کے ارد گرد کی زمینیں۔ ج رُزْدَاقَات و رُزْدَاقِی۔ أُرُزَع: المَمَاء: پانی کم ہونا..... السَّيْکَان: بہت کچڑ والی جگہ ہونا.....</p>	<p>إِرْسُوقَة: روزی مانگنا..... السُّجُنَة: روزی لینا۔ الرُزُق: روزی۔ ج اُرُزَاق: بارش۔ السَّرْدَقِ الحسن: بغیر محنت و مشقت کے حاصل ہونے والی روزی (..... و الرُزَقَة) ج رُزَقَات: سپاہیوں کی رسم۔ کہا جاتا ہے "أَخَذْتُ رُزَقَة. هَذَا الشَّهْرُ او هَذَا العَام" میں نے اس مہینے یا اس سال کی رسم لے لی۔ السَّرْدَقِی: کمزور۔ ایک قسم کا لمبا سفید انھور۔ شراب۔ الرُزْدَقِیَة: کتال کے سفید کپڑے۔ شراب۔ السَّرْدَاقِ: روزی دینے والا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ہے (صرف باری تعالیٰ پر اطلاق ہوتا ہے)</p>	<p>إِرْسُوقَة: روزی مانگنا..... السُّجُنَة: روزی لینا۔ الرُزُق: روزی۔ ج اُرُزَاق: بارش۔ السَّرْدَقِ الحسن: بغیر محنت و مشقت کے حاصل ہونے والی روزی (..... و الرُزَقَة) ج رُزَقَات: سپاہیوں کی رسم۔ کہا جاتا ہے "أَخَذْتُ رُزَقَة. هَذَا الشَّهْرُ او هَذَا العَام" میں نے اس مہینے یا اس سال کی رسم لے لی۔ السَّرْدَقِی: کمزور۔ ایک قسم کا لمبا سفید انھور۔ شراب۔ الرُزْدَقِیَة: کتال کے سفید کپڑے۔ شراب۔ السَّرْدَاقِ: روزی دینے والا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ہے (صرف باری تعالیٰ پر اطلاق ہوتا ہے)</p>

18

گرج ختم نہ ہو۔

الرزّام: سخت مرد۔ رزّوم۔

أَسَدٌ (رَزَامَةٌ وَرَزَامٌ): اپنے شکار پر چڑھ بیٹھنے والا شیر۔

الرزّيم: شیر کی گونج۔

الرزّام والمزّيم: اپنے شکار پر چکر لگانے والا اور غرانے والا شیر۔ کہا جاتا ہے "تسوّككته بالمزّيم"۔

المزّيم: شہری باندھنے کی چیز جیسے رسی۔

أمّ المزّيم: بادشاہی یا مطلقاً ہوا۔

المزّيمان: دوستارے جو دونوں شعری کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان دونوں کو محسوس سمجھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے "لاخيسر في الزّمان ما طلع المزّيمان": یعنی اس زمانہ میں خیر نہیں جب مر زمان طلوع ہوں۔

رؤن: (ن) کزننا، الشّی: ہاتھ سے اٹھا کر وزن کا اندازہ کرنا..... بالمکّان: اقامت کرنا۔

رؤن: (ک) رزّانة: سنجیدہ ہونا۔ باوقار ہونا۔ بھاری بھر کم ہونا۔ بوجھل ہونا۔ صفت مذکر (رؤن)۔ صفت مؤنث (رؤان)۔

رؤنه: نہیں بولا جاتا۔

رؤن: (ک) رزّانة: سنجیدہ ہونا۔ باوقار ہونا۔ بھاری بھر کم ہونا۔ بوجھل ہونا۔ صفت مذکر (رؤن)۔ صفت مؤنث (رؤان)۔

رؤنه: نہیں بولا جاتا۔

رؤن: (ک) رزّانة: سنجیدہ ہونا۔ باوقار ہونا۔ بھاری بھر کم ہونا۔ بوجھل ہونا۔ صفت مذکر (رؤن)۔ صفت مؤنث (رؤان)۔

رؤنه: نہیں بولا جاتا۔

رؤن: (ک) رزّانة: سنجیدہ ہونا۔ باوقار ہونا۔ بھاری بھر کم ہونا۔ بوجھل ہونا۔ صفت مذکر (رؤن)۔ صفت مؤنث (رؤان)۔

رؤنه: نہیں بولا جاتا۔

رؤن: (ک) رزّانة: سنجیدہ ہونا۔ باوقار ہونا۔ بھاری بھر کم ہونا۔ بوجھل ہونا۔ صفت مذکر (رؤن)۔ صفت مؤنث (رؤان)۔

رؤنه: نہیں بولا جاتا۔

رؤن: (ک) رزّانة: سنجیدہ ہونا۔ باوقار ہونا۔ بھاری بھر کم ہونا۔ بوجھل ہونا۔ صفت مذکر (رؤن)۔ صفت مؤنث (رؤان)۔

رؤنه: نہیں بولا جاتا۔

ارزّی ارزّاء. اليه و ارزّی اليه ظهره

: سہارا لینا۔ پناہ لینا۔

رّس: (ن) رشا، البئر: کنواں کھودنا..... الشّی: دھنسا..... لآه الخبیر: بیان کرنا

..... المّیت: میت کو دفن کرنا..... حبرهم: معلوم کرنے کی کوشش کرنا۔ بینهم: صلح کرنا

۔ قنادؤ الناء..... (خند)..... رشا و ریشنا و آرس: السقم فی جسده: بیماری کا

لازم ہو کر ٹھہر جانا۔

رأسه مرأسه بالأمير: کسی کام کی کسی کے ساتھ ابتداء کرنا۔

تراءس. القوم الخبیر: رازدارانہ کہنا۔

ارّس. الخبیر فی الناس: پھیلانا۔ ظاہر ہونا۔

السرس: بمص۔ پرانا کنواں۔ علامت۔ معدن: ہر چیز کی ابتداء۔ بخاری کی ابتداء۔ کہا جاتا ہے "بہ رّس حّمی": اسے بخاری کی

ابتداء ہے۔ رّس الحّب: آغاز محبت۔ بقیہ محبت۔ اثر محبت۔ کہا جاتا ہے "تبلغنی رّس من الخبیر" مجھے خبر کا کچھ حصہ پہنچا۔

الرّسّ: مضبوط ستون۔ الرّسّ والأرّسوسّ: ٹوپی۔

الرّیسس: بمص۔ ثابت۔ عاقل۔ غیر صحیح خبر۔ رفح زیسس: نرم ہوا۔ زیسس الحّی: بخاری کی ابتداء۔ زیسس الحّب: آغاز محبت۔ بقیہ محبت۔ اثر محبت۔

الرّشی: ٹیلہ۔ بڑی بوند کی بارش۔ رّسب و رّسب: (ن) وک کو سونپنا و رّسب. الشّی فی الماء: نشین ہونا..... العین: آنکھ اندر کودھنس جانا۔

ارّسبہ: نیچے اُتارنا۔ الرّاسب والرّسوب: من الرجال: علیم۔

بردار۔ ثابت قدم۔ الرّسب والرّسوب: السّسوب والرّسوب: من السّوف: اندر کودھنس جانے والی تلوار۔

الرّساب: سیلاب کی وجہ سے زر خیز مٹی کا

بہہ کر دریاؤں اور سمندروں میں گرنا۔

الرّوسب: بلا۔ معیبت۔

رّسح: (س) رّسحاً: دہلے چوڑا اور دہلی ران والا ہونا۔ صفت مذکر (ارّسح): صفت مؤنث (رّسحاء): رّسح: امر لآه رّسحاً: بد صورت عورت۔

ارّسحہ: لاغر کرنا۔

رّسح: (ن) رّسحاً: گزر جانا۔ کہا جاتا ہے "رّسح الحّبر فی الصّحیفه" روشنائی کتاب میں جم گئی۔ "ورّسح العلم فی القلب" علم دل میں جاگزیں ہو گیا۔ وفلان رّسح فی العلم: فلاں مضبوط علم والا ہے..... الغدیو: تالاب کا پانی نیچے اُتر گیا۔

ارّسحہ: گاڑ دینا ثابت کرنا مضبوط کرنا۔

ترّسح. فی النّقی: پرہیز گاری میں راسخ ہونا۔

الرّسندق والرّسنداق: بھینسی الرّزّذق والرّزّذاق.

رّسع: (ف) رّسعاً. العضو: خراب اور ڈھیلا ہونا..... غنّہ: چھتے ہوئے پونے والی ہونا..... الصّبی: بچہ کو نظر بد سے بچانے کے لئے ہاتھ یا پیر میں مہرہ باندھنا۔

رّسح: (س) رّسعاً: خراب پونوں والا ہونا۔ صفت (ارّسع)..... غنّہ: خراب پونوں والی ہونا۔ صفت (رّسعاء)..... بہ الشّی: چمٹنا۔

رّسع: خراب گوشہ چشم والا ہونا۔ کسی مقام پر جم کر رہنا..... الشّی: چپکانا..... السّیر: ایک تسمہ کو چھا ڈر اس میں دوسرے تسمہ کو داخل کرنا..... الصّبی: بچہ کو نظر بد سے بچانے کے لئے ہاتھ یا پیر میں مہرہ باندھنا۔

الرّساعه و رّساع: تلوار کی پر تلے کے ٹچلے حصہ میں کندھے ہوئے تھے۔

الرّسوع: کمان کے وسط میں گندھے ہوئے تھے۔

الرّسبع: چپکا یا ہوا۔ ایک تسمہ میں داخل کیا ہوا دوسرا تسمہ۔

الرّسبع: چپکا یا ہوا۔ ایک تسمہ میں داخل کیا ہوا دوسرا تسمہ۔

الرّسبع: چپکا یا ہوا۔ ایک تسمہ میں داخل کیا ہوا دوسرا تسمہ۔

الرّسبع: چپکا یا ہوا۔ ایک تسمہ میں داخل کیا ہوا دوسرا تسمہ۔

الرّسبع: چپکا یا ہوا۔ ایک تسمہ میں داخل کیا ہوا دوسرا تسمہ۔

الرّسبع: چپکا یا ہوا۔ ایک تسمہ میں داخل کیا ہوا دوسرا تسمہ۔

الرّسبع: چپکا یا ہوا۔ ایک تسمہ میں داخل کیا ہوا دوسرا تسمہ۔

وَأَرْسُمُ: معاملہ.....عِنْدَ أَهْلِ الْجَبَابَةِ بُنُكْسٍ۔ الرَّسْمُ: منظر کشی۔ غیر حقیقی ڈرامہ۔ (کَلْشَن) الرَّسْمُ: رفقاری خوبی۔ الرَّوْاسِمُ: قاف۔ بہتا ہوا پانی۔ الرَّوْاسِمُ: ج۔ رَوَّاسِمٌ (وَالرَّوْاسِمُ) ج رَوَّاسِمٌ: مہر۔ منگے وغیرہ پر مہر (قومہ) کرنے کی چیز۔ کھدی ہوئی لکڑی جس سے قلعہ کے ڈھیر پر (قومہ) مہر کی جائے۔ الرَّوْاسِمُ: علامت۔ نشان۔ مصیبت۔ الرَّوْاسِمُ: زمین پر پاؤں کے نشان ڈال کر چلنے والے اونٹ۔ واحد (رَاسِمٌ وَرَاسِمَةٌ) الرَّوْاسِمُ: مہر۔ لکھا ہوا۔ سر کلر۔ ج۔ مَرَّاسِمٌ وَمَرَّاسِمٌ۔ الرَّشَامُ: نقش کرنے والا۔ نقش بنانے والا۔ الرَّسْمَانُ وَالرَّسْمُ: زمین پر نشان ڈالتے ہوئے اونٹ کی چال۔ رَسَنٌ: (ن ض) رَسْنَا وَرَسَنٌ۔ الذَّابِيَةُ: جانور کے سر میں بری ڈالنا۔ رَسَنٌ وَأَرْسَنَ الذَّابِيَةَ: جانور کو چرنے کے لئے آزاد چھوڑ دینا اور اسی سے ہے "رَسْمِيٌّ" بِرَسْمِهِ عَلَيَّ غَارِبٌ: اس نے اس کے کندھے پر اس کی رسی ڈال دی یعنی اسے بالکل آزاد چھوڑ دیا۔ أَرْسَنَ الْمَهْرَ: بچھیری کا تابع ہونا۔ گردن میں رسی ڈالنے کے لئے سر دے دینا۔ الرَّسَنُ: جانور کے گلے میں ڈالنے کی رسی۔ ج۔ أَرْسَانٌ وَأَرْسَنٌ۔ الرَّسْمَانُ وَالرَّسْمُ: مِنَ الذَّابِيَةِ رَسِيٌّ ڈالنے کی جگہ۔ ج۔ مَرَّاسِمٌ: تاک۔ رَسَا يَرْسُو رَسُوًا وَرَسُوًا: بٹھرنا۔ ثابت ہونا۔ استوار ہونا۔ صفت مذکر (رَاسٍ): صفت مؤنث (رَاسِيَةٌ) ج۔ رَوَّاسِمٌ وَرَاسِمَاتٌ۔ رَسَبَتِ السَّفِينَةُ: لنگر انداز ہونا۔ رَسَبَتِ الْقَوْمُ: صلح کرنا.....عَنْهُ حَدِيثًا: کسی سے روایت کرنا۔ لَمْ يَحْدِثْ: کسی کے سامنے کچھ حصہ بیان کرنا.....الرَّسْوَمُ: روزے کی نیت	کرتا۔ رَاسِيٌّ: ہ۔ تیراکی میں مقابلہ کرتا۔ أَرْسَمِيٌّ رَاسِيٌّ: الشَّيْءُ: بٹھرنا۔ ثابت ہونا۔ استوار ہونا.....السَّفِينَةُ: کشتی کو لنگر انداز کرتا.....السُّوَدُ فِي الْأَرْضِ: کھونٹے کو زمین میں گاڑنا۔ الرَّسْوُ: خیر کا ایک حصہ۔ الرَّاسِيٌّ: قاف۔ قَدْرٌ رَاسِيَةٌ: ایک جگہ پر رہنے والی بڑی دیگ۔ الرَّوْاسِيٌّ: مضبوط پہاڑ۔ الرَّسْمِيُّ: ثابت۔ خیمہ کے درمیان کا تھم۔ الرَّسْمِيُّ: بندرگاہ۔ ج۔ مَرَّاسِيٌّ۔ الرَّسْمِيُّ: مہر۔ باری تعالیٰ کے قول "يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا" کے معنی یہ ہیں کہ "لوگ آپ (ﷺ) سے دریافت کرتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی؟" الرَّسْمِيَّةُ: کشتی کا لنگر۔ ج۔ مَرَّاسِيٌّ کہا جاتا ہے "الرَّسْمِيَّةُ" یعنی اس نے قیامت کی "وَأَلْقَتِ السَّحَابَ مَرَّاسِيَّهَا" بادل جم کر برسا۔ رَسَى: (ن ض) رَسَا وَرَسَا شَا. المَاءُ: پانی چھڑکنا.....السَّمَاءُ: آسمان کا پھوار برسانا.....الشَّيْءُ: دھونا۔ أَرْسَتِ. السَّمَاءُ: آسمان کا پھوار برساناالسَّطْعَةُ: کشادہ زخم ہونے سے خون بچھیل کر ٹھکانا.....الْبِشْوَاءُ: بھونے ہوئے گوشت سے چربی ٹپکانا.....الرَّفْرَسُ: گھوڑے کو دوڑا کر پینا لانا۔ رَسَّشَ. عَلَيْهِ المَاءُ: متفرق چھینے پڑنا۔ بہنا۔ الرَّشِيٌّ: بھس۔ پھوار۔ ج۔ رَشَّاسٌ: تکلیف دہ مار۔ الرَّشَّاشُ: پانی خون وغیرہ کا چھیننا۔ الرَّشَّاشَةُ: پانی وغیرہ چھڑکنے کا آلہ۔ رَشَا: (ف ض) رَشَا. الطَّبِيُّ: ہرن کا قومی ہو کر مال کے ساتھ چلنا.....الرَّشِيَّةُ: ہرن کا جننا۔
---	---

الرَّشَا: ہرن کا بچہ یا وہ جو چلنے لگے۔ ج۔
ارشاء۔
الرَّشِيَّةُ: مغز سے خالی ناریل جس سے پانی
نکالیں۔
الرَّشَّاشُ: مٹی جس سے مکھنوں کا منہ بند
کر دیں۔
رَشَحَ (ف) رَشَحًا وَرَشَحَانًا وَأَرْشَحَ
وَأَرْشَحَ. الْإِنْسَاءُ: برتن کا ٹپکانا۔ رَسَا.....
السَّجْدُ: بدن کا پسینہ والا ہونا وَأَرْشَحَ
الطَّبِيُّ: ہرن کا اچھلنا۔ کودنا۔ کہا جاتا ہے "لَمْ
يَرْشَحْ لَهُ بَشِيٌّ: اس نے اس کو کچھ نہیں دیا۔
رَشَحَتِ النَّاقَةُ وَلَدَهَا رَشْحًا وَأَرْشَحَتْهُ
وَرَشَحَتْهُ: اونٹنی کا اپنے بچہ کی دم کی جڑ کو
اپنے سر سے رگڑنا اور آگے بڑھانا اور خود
ٹھہر ٹھہر کر جانا تاکہ بچہ اس سے لائق رہے۔
صفت (رَاشِحٌ مَرُوشِحٌ وَمَرُوشِحٌ)
رَشِحٌ: پسینے سے تر ہونا۔
رَشَحَ. المَالُ: بہتر انتظام کرنا.....الرَّوْلَدُ:
پرورش کرنا اور کام کے لائق بنانا اور اسی سے
ہے "هُوَ يَرْشَحُ لَوْلَايَةِ الْعَهْدِ" وہ ولی عہدی
کے لئے تیار کیا جا رہا ہے.....الرَّشِيَّةُ
وَلَدَهَا: جننے کے وقت آلائش چاٹنا.....النَّاقَةُ
وَلَدَهَا: بھتی رَشَحَتْهُ.....الرَّغِيثُ
النَّبَاتُ: بارش کا نباتات کو بڑھانا۔
رَشَحَ. وَلَدَ النَّاقَةَ: ماں کے ساتھ چلنے کے
لائق ہونا.....الرَّشِيَّةُ: جننے کے وقت آلائش
چاٹنا.....المَاءُ: پتھروں سے ٹپکانا۔
.....الرَّجُلُ لَأْمَرٍ: لائق ہونا۔ اہل ہونا۔
إِسْتَرْشَحَ. النَّبَاتُ: بلند ہونا۔ بڑھنا.....
النَّبَاتُ: چرانے کے لئے بڑھنے کا انتظار
کرنا۔
الرَّشْحُ: بھس۔ پسینہ۔
الرَّاشِحُ: قاف۔ پتھروں سے چپکنے والا پانی۔
.....مِنَ الْفَضْلَانِ: چلنے میں قوی۔ پہاڑ
جس کا ٹپکا حصہ تر ہو۔ زمین پر ریگنے والا
کیڑا۔ ج۔ رَاشِحٌ۔
الرَّشِيحُ: پسینہ۔ ایک قسم کی نباتات۔

المِرْشَحُ والمِرْشَحَةُ: زین کے نیچے کا
خوگیر۔

الأَرْشَحُ: بہت ذہین۔ ذکی۔ کہا جاتا ہے
”هُوَ أَرْشَحُ فَوَإِذَا“۔ وہ تیز خاطر ہے۔

رَشَدٌ (ن) رُشْدًا ورَشَادًا ورَشِدًا (س)
رَشْدًا: ہدایت پانا۔ راہ راست پر چلنا۔
أَمْرًا: ہدایت یافتہ ہونا۔

رَشْدُهُ وَأَرْشَدُهُ: الی کَذَا وَعَلَيْهِ وَلَهُ:
ہدایت کرنا۔ رَشْدُهُ القَاضِي: سیدھے
راستہ پر چلنا۔

إِسْتَرَشَدَ: لِأَمْرِهِ: راہ راست پانا۔
.....: ہدایت طلب کرنا۔

الرُّشْدُ: مَعْنَى: ہدایت راہ راست پر ہونا۔
الرُّشْدَةُ والرُّشْدَةُ: حلال زادہ۔
الرُّشْدَى: ہدایت۔

الرُّشِيدُ: سیدھے راستہ پر چلنے والا۔ ہدایت
یافتہ۔ ہدایت کرنے والا۔

الرُّشَادُ والرُّشْدُ: ایک قسم کی نباتات۔
الرُّشَادَةُ: چٹان۔ مٹی بھر کا پتھر۔ جَزَادُ:

السَّمْرُاشِدُ: سیدھے و متوسط راستے (جمع ہے
واحد نہیں)

أُمُّ (رَاشِدٍ): چوبیا۔
رَشْرَشٌ ورَشْرَشَةٌ: ڈھیلا ہونا۔

..... البَجِيرُ: آونٹ کا اچھی طرح بیٹھنے کے
لئے سینے سے زمین رگڑنا۔

تَرَشْرَشَ: المَاءُ: بہنا۔ خَسِرَ أو عَظَمَ
(رَشْرَشٌ ورَشْرَاشٌ): نرم روٹی یا ہڈی۔

رَشَفٌ (ش ن) رَشْفًا ورَشِيفًا وتَرَشَفًا
ورَشِيفٌ (س) رَشْفًا ورَشْفَانًا المَاءُ

وتَحَوُّةٌ: چوسنا۔ الإِنَاءُ: پی کر خالی کرنا۔
رَشْفٌ وأَرَشَفٌ وتَرَشَفٌ وأَرَشَفٌ

المَاءُ: خوب چوسنا۔
الرَشْفُ والرَشِيفُ: حوض کا بقیہ تھوڑا پانی۔

کہا جاتا ہے ”حَوْضٌ رَشْفٌ“ بے پانی کا
حوض۔

الرَشَافُ: بہت چوسنے والا۔
المِرْشَفُ: پانی چوسنے کا آلہ۔ ج مَرَشِيفٌ.

المَرَاشِيفُ: ہونٹ۔
رَشَقَهُ (ن) رَشَقًا: بالنَهْمِ: تیر مارنا۔

بَبَصْرِهِ: گھور کے دیکھنا۔ ہ بلسانہ: طعن و
تَشْفِيعٌ کرنا اور اسی سے ہے اِيَّاكَ ورَشَقَاتُ

اللِّسَانِ“ زبان کی طعنہ زنی سے اپنے آپ کو
بچاؤ۔

رَشِقٌ (ك) رَشَاقَةٌ: الغُلَامُ: خوبصورت
قد والا ہونا۔ چابک دست ہونا۔ پھر تیل

ہونا۔ صفت (رَشِيقٌ) ج رَشِيقٌ:
رَاشِقَةٌ مَرَاشِقَةٌ: ہمراہ چلنا۔ ایک دوسرے کو

تیر مارنا۔
تَرَشَّقُ: القَوْمُ: باہم تیر اندازی کرنا اور کہا

جاتا ہے ”تَرَشَّقُوا بِالسِّبْطِیْمِ وتَرَشَّقُوا
بِنَاعِیْتِهِمْ“ انہوں نے اپنی زبانوں سے طعن و

تَشْفِيعٌ کی اور اپنی آنکھوں سے گھور گھور کر
دیکھا۔

تَرَشَّقُ: فِی الأَمْرِ: تیز ہونا۔
أَرَشِقُ: النِّظْرُ إِلَیْهِ: تیر نظر سے دیکھنا۔

القَوْمُ بَبَصْرِهِ: نِگاہ ڈالنا۔ الظَّيْفَةُ: ہرنی کا
گردن پھیلا کر تیز نظر سے دیکھنا۔ الرَّامِي:

سیدھا تیر پھینکنا۔ کہا جاتا ہے ”أَرَشَقْنِي
مَقْصِدِي“ اس نے میرے مقصد کی طرف

چلنے میں میرا مقابلہ کیا ”وَمَا أَرَشَقَنِي هَذِهِ
السَّقُوسُ“ یہ کمان کس قدر تیز تیر پھینکنے والی

ہے۔
الرَّشِقُ: تیز تیر پھینکنے والی کمان۔ رَشِيقٌ کی

جمع۔
الرَشِقُ والرَشِيقُ: قلم کی چرچاہٹ۔ تم

کہتے ہو ”سَمِعْتُ رَشِقَ قَلَمِهِ“ میں نے اس
کے قلم کے چلنے کی آواز سنی۔ الرَشِيقُ: تیر

اندازی ج رَشَاقٌ:
الأَرَشِقُ: سیدھا کھڑا۔ کہا جاتا ہے ”جِئْتُ

أَرَشِقٌ“ کھڑی گردن۔
الرَشِيقُ: نازک اندام و خوبصورت۔

مِنَ اللَّفْظِ أو الخَطِّ: پاکیزہ و نسیں لفظ یا
خط۔

رَشِمٌ (ن) رَشْمًا: يَبْدُرُ الحِنَطَةَ: گہوں

کے کھلیان (قوم پر) مہر کرنا۔ (..... ورَشِمٌ)
لکھنا۔

رَشِمٌ (س) رَشْمًا: کھانے کی بوس لگنا اور
خوابش کرنا۔ صفت (أَرَشِمٌ)

أَرَشِمٌ: الشَّجَرُ: درخت کا پتے والا ہونا۔
الأَرَشُ: سبزی لکھنا شروع ہونا۔ البَوَاقُ:

بجلی چمکنا۔ المَاشِيَةُ: ابتدائی سبزی چرنا۔
(..... وأَرَشِمٌ) الإِنَاءُ: برتن پر قومہ مہر کرنا۔

الرَشِمُ: ابتدائی سبزی۔ بجو کی منہ کی سیاہی
(..... والرَشِمُ) زمین پر بارش کا اثر۔ ہر چیز کا

اثر۔
الأَرَشِمُ: داعدار۔ کتا (چونکہ اس کے نتھوں

کے درمیان سیاہی ہوتی ہے)۔ مِن
الغَيْثِ: تھوڑی بارش۔ عام أَرَشِمٌ: سال کہ

جس میں ارزانی و فراخی اچھی طرح نہ ہو۔
الرَّوْشَمُ والرَّوْشُمُ: غلہ کے انہار پر قومہ مہر

کرنے کی منقوش تختی۔
الرُّشْمَةُ: بجو کے منہ کی سیاہی۔

رَشَنٌ (ن) رَشْنًا ورَشُونًا: بن بلائے
مہمان بننا۔ الكَلْبُ فِي الإِنَاءِ: کتے کا

برتن میں سر ڈالنا۔
الرَّوْشَنُ والرَّوْشَنُ: پانی نکلنے کا دہانہ۔

الرَّوْشِنُ: قا۔ بن بلائے مہمان۔ کارگیر کے
شاگرد کا وظیفہ جس کو عوام کے نزدیک

”الحُلُونُ“ بھی کہا جاتا ہے۔
الرَّوْشِنُ: روشن دان۔ ج رَوَّاشِنُ.

رَشَاهُ (ن) رَشَوًا: رشوت دینا۔
رَاشِيٌ مَرَاشِاةٌ: فلاں: رشوت دینا۔ دو

کرنا۔
أَرَشِي. السَّدَلُ: ڈول میں رسی لگانا۔

الشَّجَرُ: درخت کا لمبی ٹہنیوں کا ہونا۔
القَوْمُ فِي قَدَمِهِ: کسی کے خون میں شریک

ہونا۔ أَرَشُوا بِسَلَاحِهِمْ فِيهِ: کسی کے
مقابلہ کے لئے اپنے ہتھیاروں کو درست

کرنا۔
تَرَشَى: الرَّجُلُ: باہم نرمی برتنا۔

أَرَشَى: رشوت لینا۔ مِنْهُ رَشَوَةٌ: رشوت

الرِّصَاعُ: بمعنى الرِّسَاعُ. رَضَفَ (ن) رَضْفًا. الحِجَارَةُ: پتھروں کو ترتیب سے جوڑنا..... المَصْلِيُّ قَدَمَيْهِ اوبٹن قدمیہ: نمازی کا قدموں کو قریب قریب کرنا یا ایک کو دوسرے سے ملانا اور کہا جاتا ہے "هَذَا الْأَمْرُ لَا يُرَضَفُ بِكَ" یہ کام تمہارے لائق نہیں۔ رَضَفَ (ك) رَضْفًا. الْعَمَلُ: مضبوط ہونا۔ رَضِفْتُ: (س) رَضْفًا وَرَضِفْتُ رَضْفًا أَسْنَانُهُ: دانتوں کا ترتیب و ہموار ہونا۔ أَرَضَفُ: شراب وغیرہ میں پہاڑی چشمہ کا پانی ملانا۔ تَرَضَفْتُ وَتَرَضَفْتُ وَارْتَضَفْتُ وَالحِجَارَةُ: پتھروں کا ترتیب وار ملنا۔ الْقَوْمُ فِي الضَّفِّ: ترتیب سے ایک دوسرے سے مل کر کھڑا ہونا..... أَسْنَانُهُ: دانتوں کا ترتیب وار ہونا۔ الرِّضْفُ: پانی بہنے کی جگہ میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے پتھر۔ واحد (رَضْفَةٌ) الرِّضْفَانُ: گھٹنوں کی ہڈیوں کے پٹھے۔ رَضَفَ: پانی کا بند۔ عَاءُ الرِّضْفِ: پہاڑی کا صاف پانی جو چٹان پر گرے۔ الرِّضْفُ: پتھا جو چھتر میں تیر کے پھل کے داخل ہونے کی جگہ سے اوپر لگایا جاتا ہے۔ گھوڑے کا پتھا۔ پہلو کی ہڈیاں۔ ج رَضَفَ وَرَضَفَ. الرِّضْفُ: نظیر۔ دوست۔ عَمَلٌ رَضِيفٌ: مضبوط کام اور مولدین کے نزدیک رَضِيفٌ: کا اطلاق پتھروں کے فرش کئے ہوئے راستہ پر ہوتا ہے۔ الرِّضْفَاةُ: پتھا جو چھتر میں تیر کے پھل کے اندر داخل ہونے کی جگہ سے اوپر لگایا جاتا ہے۔ اطراف شہر کا سبزہ زار اور عموماً اس کا اطلاق بغداد کے ایک مقام پر ہوتا ہے۔ الرِّضْفَةُ: ثابت قدمی۔ المِرْضَاةُ: تھوڑا۔	المُرْتَضِفُ: شیر۔ رَجُلٌ مُرْتَضِفٌ: والی بارش۔ الْأَسْنَانُ: قریب قریب دانتوں والا مرد۔ رَضَنَ (ن) رَضْنًا. الْأَمْرُ: پورا کرنا۔ مضبوط کرنا..... السَّدَابَةُ: داغ لگانا..... ہلدسانہ: گالی دینا۔ رَضِنَ (ك) رَضَانَةً. الْعَقْلُ وَغَيْرُهُ: سنجیدہ ہونا۔ مضبوط ہونا۔ ثابت قدم ہونا۔ صفت (رَضِينٌ) رَضِنَ الشَّيْءُ مَعْرِفَةً: خوب اچھی طرح سمجھنا اور کہا جاتا ہے "رَضِنَ لِي هَذَا الخَيْرُ" میرے لئے اس خبر کی تحقیق کرو۔ أَرَضَنَهُ: مضبوط کرنا۔ مکمل کرنا۔ الرِّضْنُ: ایک قسم کی نباتات۔ الرِّضِينُ: اپنے ساتھی کی ضرورت کے لئے اصرار کرنے والا۔ دروند۔ دردناک۔ المِرْضَنُ: جانوروں کو داغ لگانے کا لوہا۔ رَضَا (ن) رَضْوًا. الشَّيْءُ: مضبوط کرنا۔ استوار کرنا۔ أَرَضَى. بِالْمَكَانِ: جم کے رہنا۔ رَضَهُ (ن) رَضًا: کوٹنا۔ دلنا۔ رَضَضَ. الشَّيْءُ: اچھی طرح کوٹنا۔ دلنا۔ تَرَضَضَ: کوٹنا۔ دلا جانا۔ أَرْضَى: بس و بوجھل ہونا۔ تیز دوڑنا..... فِي الْأَرْضِ: اجانا۔ الثَّغْبُ العَرَقُ: پسینہ بہانا۔ أَرَضَى. الشَّيْءُ: ٹوٹنا۔ الْأَرْضُ: جم کر بیٹھنے والا۔ الرِّضِيُّضُ وَالمِرْضِيُّضُ: کوٹا ہوا۔ الرِّضَاضُ: ریزے۔ چورہ۔ المِرْضَةُ وَالمِرْضَةُ وَالرِّضُ: کھٹلی نکال کر دودھ میں گھولنی ہوئی بھجوریں۔ المِرْضَةُ: کوٹنے یا دلنے کا آلہ۔ رَضَبَ (ن) رَضْبًا وَأَرَضَبَ. المَطْرُ: زور سے بارش ہونا..... السَّمَاءُ: آسمان کا برسا نا (رَضَبٌ وَتَرَضَبٌ) الرِّيقُ: تھوک چوسنا۔ الرِّاضِبُ: ف۔ مِنَ المَطْرُ: زور سے برسنے
---	---

<p>دیتے تھے تاکہ اس کی گرمی سے گوشت پک جائے۔ المِرْضَافَةُ: داغ کرنے کا آلہ۔ مُطْفِئَةُ (الرَّضْفِ): ایسی تخت مصیبت جو پھیلے مصیبتوں کو بھلا دے۔ چربی جو پکھل کر پتھر کی گرمی بھلا دے۔ بہت زہریلا سانپ جس کے زہر سے پتھر کی گرمی کم ہو جائے جبکہ وہ اس پر سے گزرے۔ أَرْضُكَ: غَيْبِيهِ: آنکھوں کو بند کرنا اور کھولنا۔ رَضَمٌ: (رض) أَرْضَمًا. الأرض: زمین کو جوتنا..... الْبَيْتُ: گھر کو بڑے بڑے پتھروں سے بنانا۔ صفت مفعولی (رَضَمٌ وَمُرْضُومٌ) المتاع: سامان کو تہہ رکھنا۔ الشی: توڑنا۔ عَلَيْهِ الصَّخْرُ: ڈالنا..... رَضَمًا وَرَضَمَانًا فِي الْمَشِي: ست چلانا۔ قریب قریب قدم رکھ کر دوڑنا..... بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ إِرْضَمُ: المتاع: سامان تہہ ہونا۔ الرَّضْمُ وَالرَّضَمُ وَالرَّضَامُ: بڑے بڑے پتھر جو عمارت میں اوپر تلے رکھے جائیں۔ رَضَمٌ: کا واحد (رَضَمَةٌ) الرَّضَامُ: ایک قسم کی گھاس۔ ہر چیز کا قلیل حصہ۔ رَضَاهُ يَرْضُوهُ رَضْوًا: پسندیدگی میں غالب ہونا۔ کہا جاتا ہے "رَضَائِي فَرْضُوته" اس نے مجھ سے پسندیدگی میں مقابلہ کیا اور میں غالب رہا۔ رَضِي: (س) رَضِي وَرَضِي وَرَضْوَانًا وَرَضْوَانًا وَمَرْضَاةً. عَنْهُ وَعَلَيْهِ: خوش ہونا۔ راضی ہونا۔ صفت (راض) ج رَاضُونَ وَرَضَاةً وَرَضً: رَضُونَ (وَرَضِي) ج أَرْضِيَاءُ وَرَضَاةً. رَضِي. الشی وَرَضِي بِهِ وَفِيهِ: پسند کرنا۔ قناعت کرنا۔ صفت مفعولی (مَرْضِي وَرَضُو) کہا جاتا ہے "رَضِي اللہ عَنْ فَلَانٍ وَرَضِي عَنْهُ" یعنی اللہ اس کے اعمال کو</p>	<p>لوگوں سے سوال کرنے والا۔ الرَّاضِعَةُ. راضع کا مؤنث۔ الرَّاغِبَانِ: بچہ کے اگلے دودانت۔ ج رَوَاضِعُ. الرَّضِيعُ ج رُضْعَاءُ وَرَضِيعٌ ج رُضْعٌ: دودھ پینا بچہ۔ کمینہ۔ رَضِيعٌ: تمہارا رضاعی بھائی اور وہ تمہارا رضاعی بھائی ہوگا اس لئے مراضع کے معنی میں ہے۔ الرَّضَاعَةُ: مصل۔ پچھوائی اور دکھی ہواؤں کے درمیان کی ہوا۔ (.....) وَالرَّضَاعَةُ: إِرْضَاعٌ: کا اسم۔ الرَّضُوعَةُ: اپنے بچہ کو دودھ پلانے والی عورت۔ الرُّضَاعُ: بہت دودھ پلانے والے۔ کمینہ۔ الرِّاضِعُ: کمینہ۔ رَضْفُهُ: (رض) رَضْفًا: داغ لگانا۔ رَضْفُ اللَّيْنِ: دودھ کو گرم پتھر پر گرم کرنا..... اللَّحْمُ: گوشت کو گرم پتھر پر بھوننا۔ رَضْفُهُ: سخت غصینا کر دینا۔ الرَّضْفُ: گرم پتھر۔ واحد (رَضْفَةٌ): کہا جاتا ہے "هُوَ عَلَى الرَّضْفِ" یعنی وہ رنجیدہ ہے۔ الرِّضْفُ: ملی ہوئی انگلیوں کی مانند گھٹنے کی ہڈیاں اور امثال میں سے ہے "خُلْدَمِنَ الرِّضْفَةِ مَا عَلَيْنَهَا" یعنی بخیل آدمی سے جو کچھ تھوڑا سا ملے وہی لے لو۔ الرَّضْفَةُ: گرم پتھر۔ گرم پتھر سے کیا ہوا داغ۔ ج رَضْفٌ وَرَضْفَاتٌ. الرَّضِيفُ: گرم پتھر (.....) وَالرَّضِيفَةُ: گرم پتھر ڈال کر گرم کیا ہوا دودھ اور اسی سے ہے "شَرِيفُ الرِّضِيفَةِ" میں نے گرم پتھر ڈال کر گرم کیا ہوا دودھ پیا۔ الرَّضِيفُ وَالْمَرْضُوفُ: گرم پتھر پر بھنا ہوا گوشت۔ الرَّضِيفَةُ وَالْمَرْضُوفَةُ: اوجھ جس کو دھو کر سفر میں اپنے ساتھ رکھتے تھے اور جب ہانڈی نہیں ہوتی تھی تو گوشت کے ٹکڑے کا ٹکڑا اسی اوجھ میں بھر دیتے تھے اور پھر پتھر گرم کر کے اس کو بھی اسی اوجھ میں ڈال</p>	<p>سَوَّاحِجُ الْقَوْمِ بِالْحِجَارَةِ: ہانہم پتھراؤ کرنا۔ تَرْضِخُ. الرِّضْخُ: نکرری کا ٹوٹنا۔ الرِّضْخُ: توڑ کر کھانا..... الرِّضْخُ: من کر بقیں نہ کرنا۔ الرَّضِخُ: مصل۔ تھوڑا عطیہ۔ سنی ہوئی غیر یقینی خبر۔ الرَّضِخُ: توڑی ہوئی گھٹلی۔ الرَّضِخَةُ وَالرِّضَاخَةُ: تھوڑا عطیہ۔ الرِّضَاخُ ج مَرْضَاخِجُ (الرِّضَاخَةُ): پتھر جس سے یا جس پر توڑا جائے۔ رَضْدٌ: (ن) رَضْدًا. المتاع: سامان کو ترتیب سے رکھنا۔ إِرْضَادٌ. المتاع: سامان ترتیب سے رکھنا۔ رَضِعٌ (س) وَرَضِعٌ (ف) رَضْعًا وَرَضْعًا وَرَضِعًا وَرَضَاعًا وَرَضَاعًا وَرَضَاعَةٌ وَرَضَاعَةٌ وَرَضَاعَةٌ: الولد أمه: ماں کا دودھ پینا۔ صفت (راضع) ج رَضِعٌ رَضِعٌ: (ک) رَضَاعَةٌ: لیم ہونا۔ کمینہ ہونا۔ صفت (راضع) ج رَضِعٌ. رَضَعَهُ رَضَاعًا وَمَرْضَاعَةً: رضاعی بھائی کے ساتھ دودھ پینا..... إِنْهُ: دائی پلائی کو دینا..... الرِّضْفُ: بچے کا اپنی حاملہ ماں کا دودھ پینا۔ أَرْضَعَهُ: دودھ پلانا۔ أَرْضَعَتِ الْمَرْأَةُ: دودھ پیتے بچہ والی ہونا۔ صفت (مَرْضِعٌ): (اس کلمہ میں تا علامت تا تین لائق نہیں ہوتی اس وجہ سے یہ کہ طبقہ اثنا عشری کے لئے مخصوص ہے اور جب بچہ پستان کو منہ میں لے لے تو اس وقت صفت (مَرْضِعَةٌ): ہوگی۔ ج مَرْضِعَاتٌ وَمَرْضِعٌ. إِسْتَرْضِعَ: دائی پلائی طلب کرنا یا دودھ پلانے کو کہنا۔ کہا جاتا ہے "إِسْتَرْضَعْتُ الْمَرْأَةَ وَوَلَدِي" عورت سے میں نے اپنے بچہ کو دودھ پلانے کو کہا۔ الرِّضْعُ: گینگلی۔ کھجور کے چھوٹے چھوٹے پودے۔ واحد (رَضْعَةٌ) الرِّاضِعُ: فا۔ دودھ والی۔ کمینہ۔ بخیل۔</p>
--	---	---

قبول کرے اور اس سے خوش رہے۔ "رُضِيَتْ مَعِيْشَةُ" اس کی زندگی پسندیدہ ہے۔ الرُّضَاءُ: جماع کرنا۔ الرُّضِيَتْ: بے وقوف ہونا۔	الرُّطَابُ: بروزن نظام: عورتوں کے لئے ایک گالی۔
رَضِيَ رِضَاءً وَمُرَاضَاةً الرَّجُلُ: رضامندی طلب کرنا۔ پسندیدگی میں مقابلہ کرنا۔	الرُّجُلُ: بے وقوف سمجھنا۔ الرُّطَا: بے وقوفی۔ الرُّطِيُّ: بے وقوف۔ جِ رِطَاءً: مَوْنُثٌ رِطْفَةٌ وَرِطَاءً۔	المُرطبان: اچار مرتبہ جمع کرنے کے لئے برتن۔ (عامی لفظ ہے)۔ الرُّطْبُ: کمزور بال وغیرہ۔ الرُّطَاذَاتُ: خرافات۔ رِطْسٌ: (ن) رِطْسًا: تھپہ مارنا۔ رِطْسَتْ: عَلَيْهِ الْجَحَاذَةُ: پتھروں کا تہ بہ تہ ہونا۔
أَرْضِي وَرَضِي. الرَّجُلُ: رضامند کرنا۔ خوش کرنے کے لائق دینا۔	رِطْبٌ: (ن) كِرطَابَةُ البُسرُ: پختہ ہونا۔ بسر بھجور کا رطب ہونا۔ رِطْبٌ (ن) رِطْبًا وَرِطْبًا: الذابَّةُ: جانور کو تازہ چارہ کھلانا۔	رِطْعٌ: (ف) رِطْعًا: الجارية: جماع کرنا۔ الرُّطْعُ: زکام۔ رِطْلٌ: (ن) كِرطَالًا: الشَّيْءُ: ہاتھ میں اٹھا کر وزن معلوم کرنا۔۔۔۔۔۔ الرَّجُلُ: دوڑنا۔ رِطْلٌ: الشَّعْرُ: تیل لگا کر نرم کرنا اور کنگھی کرنا۔۔۔۔۔۔ الشَّيْءُ: رطل پیمانہ سے وزن کرنا (..... وَأَرِطْلُ) الرَّجُلُ: ڈھیلے لگے ہوئے کانوں والا ہونا۔ رِطْلٌ: رطل سے پینا۔ الرُّطْلُ والرُّطْلُ: بارہ اوقیہ کا ایک وزن۔ ۳۰ تولہ۔ جِ أَرِطَالُ: الرَّطْلُ مِنَ الرَّجَالِ: بے وقوف۔ ست۔ کمزور بڑھا۔ لاغر اندام۔ قریب البلوغ لڑکا۔ سبک رفتار گھوڑا۔
تَرْضِي. الرَّجُلُ: رضامندی طلب کرنا۔ تَرْضَى. القَوْمُ الشَّيْءُ: قوم میں سے ہر ایک کا کسی چیز کو پسند کرنا۔ رِضَاءً: لِيخْدَمِيهِ او لِيخْدَمِيهِ: پسند کرنا۔ إِسْتَرْضَاةً: رضامندی طلب کرنا۔ وَأِسْتَرْضِيَتْهُ: کسی سے یہ کہنا کہ مجھے رضامند کرو۔	رِطْبٌ: (س) وَرِطْبٌ (ك) كِرطُونَةٌ وَرِطَابَةٌ: تر ہونا۔ نمناک ہونا۔ نازک ہونا۔ رِطْبُ البُسرُ: پختہ ہونا۔ رِطْبٌ وَأَرِطْبُ: الفَرْبُ وَنَحْوُهُ: تر کرنا۔ رِطْبٌ وَأَرِطْبُ البُسرُ: پختہ ہونا۔ رِطْبُ القَوْمِ: پختہ بھجور کھلانا۔ وَأَرِطْبُ الأَرْضِ: زمین کا بہت پختہ بھجور والی ہونا۔ أَرِطْبُ النَّخْلِ: بھجور کے پکنے کا وقت آنا۔ القَوْمُ: پختہ بھجوروں کے درخت خرما کا مالک ہونا۔	رِطْلٌ: (ن) كِرطَالًا: الشَّيْءُ: ہاتھ میں اٹھا کر وزن معلوم کرنا۔۔۔۔۔۔ الرَّجُلُ: دوڑنا۔ رِطْلٌ: الشَّعْرُ: تیل لگا کر نرم کرنا اور کنگھی کرنا۔۔۔۔۔۔ الشَّيْءُ: رطل پیمانہ سے وزن کرنا (..... وَأَرِطْلُ) الرَّجُلُ: ڈھیلے لگے ہوئے کانوں والا ہونا۔ رِطْلٌ: رطل سے پینا۔ الرُّطْلُ والرُّطْلُ: بارہ اوقیہ کا ایک وزن۔ ۳۰ تولہ۔ جِ أَرِطَالُ: الرَّطْلُ مِنَ الرَّجَالِ: بے وقوف۔ ست۔ کمزور بڑھا۔ لاغر اندام۔ قریب البلوغ لڑکا۔ سبک رفتار گھوڑا۔
رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ (رَضِي) : پسندیدہ مرد یا عورت (چونکہ یہ مصدر بمعنی مقبول ہے اس لئے مفرد مشبہ جمع مذکر مؤنث سب کے لئے یہی ہے)	رِطْبٌ وَأَرِطْبُ البُسرُ: پختہ ہونا۔ رِطْبُ القَوْمِ: پختہ بھجور کھلانا۔ وَأَرِطْبُ الأَرْضِ: زمین کا بہت پختہ بھجور والی ہونا۔ أَرِطْبُ النَّخْلِ: بھجور کے پکنے کا وقت آنا۔ القَوْمُ: پختہ بھجوروں کے درخت خرما کا مالک ہونا۔	الرُّطْلُ والرُّطْلُ: بارہ اوقیہ کا ایک وزن۔ ۳۰ تولہ۔ جِ أَرِطَالُ: الرَّطْلُ مِنَ الرَّجَالِ: بے وقوف۔ ست۔ کمزور بڑھا۔ لاغر اندام۔ قریب البلوغ لڑکا۔ سبک رفتار گھوڑا۔
عِيْشَةٌ (رَضِيَّةٌ) : پسندیدہ و اچھی زندگی (اس میں اسناد مجازی ہے)	تَرْضَبُ: تر ہونا اور اسی سے ہے "تَرْضَبُ" لِسَانِي بِيذِ كَمْرُوكَ" تمہاری یاد سے میری زبان تر ہے۔	الرُّطْلُ: سبک رفتار گھوڑی۔ الرُّطْلِيَاءُ: ریتلا کی تھیف ہے۔ الرُّطْلُ: مِنَ الرَّجَالِ: نرم۔ لمبا۔ رِطْمَةٌ: (ن) رِطْمًا: کچھڑ میں گرانہ۔ پیچیدہ اور مشکل کام میں پھنسانا۔ رِطْمٌ وَأَرِطْمٌ: فِئِي قَعُوذِهِ: جم کے بیٹھنا۔ وَأَرِطْمٌ الرَّجُلُ: خاموش رہنا۔ رِطْمٌ: البَعِيضُ: اونٹ کو قش کی بیماری ہونا۔ تَرِطْمٌ: السِّلْحُ: پاخانہ روکنا۔ إِرِطْمٌ: کچھڑ میں گرانہ یا پیچیدہ و مشکل کام میں پھنسانا۔۔۔۔۔۔ فِئِي الأَمْرِ: کسی معاملہ میں پھنس جانا۔۔۔۔۔۔ عَلَيْهِ الأَمْرُ: مشتبہ ہونا۔۔۔۔۔۔ الشَّيْءُ: ڈھیر لگانا۔
رَضَوِي : مدینہ طیبہ اور رَضِيْعُ کے درمیان ایک پہاڑ کا نام اور نسبت کے لئے رَضَوِيٌّ۔ الرِّضَاءُ: خوشنودی۔ الرِّضْوَةُ: خوشنودی۔ کہا جاتا ہے "فَالْقَلْبُ ذَلِكُ إِلَّا عَنِ رَضْوِيَّة" میں نے اس کو اس کی رضامندی سے کیا۔	الرُّطْبُ والرُّطْبُ: سبز چارہ۔ الرُّطْبُ: پختہ تازہ بھجور۔ واحد (رِطْبَةٌ): جِ رِطَابٌ وَأَرِطَابٌ۔ الرُّطْبِيَّةُ: گھاس نما پودہ تین پتوں والا۔ بنفشہ رنگ پھولوں والا جنگل میں اور زراعت کیا جاتا ہے۔ الرُّطْبِيَّةُ: کھاری کنوئیں کے درمیان بیٹھا کنواں۔	الرُّطْلُ: سبک رفتار گھوڑی۔ الرُّطْلِيَاءُ: ریتلا کی تھیف ہے۔ الرُّطْلُ: مِنَ الرَّجَالِ: نرم۔ لمبا۔ رِطْمَةٌ: (ن) رِطْمًا: کچھڑ میں گرانہ۔ پیچیدہ اور مشکل کام میں پھنسانا۔ رِطْمٌ وَأَرِطْمٌ: فِئِي قَعُوذِهِ: جم کے بیٹھنا۔ وَأَرِطْمٌ الرَّجُلُ: خاموش رہنا۔ رِطْمٌ: البَعِيضُ: اونٹ کو قش کی بیماری ہونا۔ تَرِطْمٌ: السِّلْحُ: پاخانہ روکنا۔ إِرِطْمٌ: کچھڑ میں گرانہ یا پیچیدہ و مشکل کام میں پھنسانا۔۔۔۔۔۔ فِئِي الأَمْرِ: کسی معاملہ میں پھنس جانا۔۔۔۔۔۔ عَلَيْهِ الأَمْرُ: مشتبہ ہونا۔۔۔۔۔۔ الشَّيْءُ: ڈھیر لگانا۔
رَضِيٌّ: عاشق۔ دہلا۔ چھریا۔ أَرِطٌ أَرِطًا: بے وقوف ہونا۔ چلانا۔ شور مچانا۔ فِئِي مَقْعِدِهِ: جم کے بیٹھنا۔ أَسْتَرِطُهُ: بے وقوف سمجھنا۔ الرُّطْبِيَّةُ: شور۔ جِج۔ بیوقوفی۔ بے وقوف۔ جِ رِطَاطُ۔ الرُّطْبَانِيَّةُ: بے وقوف (جمع ہی ہے اس کے لئے واحد نہیں)	الرُّطْبُ والرُّطْبُ: سبز چارہ۔ الرُّطْبُ: پختہ تازہ بھجور۔ واحد (رِطْبَةٌ): جِ رِطَابٌ وَأَرِطَابٌ۔ الرُّطْبِيَّةُ: گھاس نما پودہ تین پتوں والا۔ بنفشہ رنگ پھولوں والا جنگل میں اور زراعت کیا جاتا ہے۔ الرُّطْبِيَّةُ: کھاری کنوئیں کے درمیان بیٹھا کنواں۔	الرُّطْلُ: سبک رفتار گھوڑی۔ الرُّطْلِيَاءُ: ریتلا کی تھیف ہے۔ الرُّطْلُ: مِنَ الرَّجَالِ: نرم۔ لمبا۔ رِطْمَةٌ: (ن) رِطْمًا: کچھڑ میں گرانہ۔ پیچیدہ اور مشکل کام میں پھنسانا۔ رِطْمٌ وَأَرِطْمٌ: فِئِي قَعُوذِهِ: جم کے بیٹھنا۔ وَأَرِطْمٌ الرَّجُلُ: خاموش رہنا۔ رِطْمٌ: البَعِيضُ: اونٹ کو قش کی بیماری ہونا۔ تَرِطْمٌ: السِّلْحُ: پاخانہ روکنا۔ إِرِطْمٌ: کچھڑ میں گرانہ یا پیچیدہ و مشکل کام میں پھنسانا۔۔۔۔۔۔ فِئِي الأَمْرِ: کسی معاملہ میں پھنس جانا۔۔۔۔۔۔ عَلَيْهِ الأَمْرُ: مشتبہ ہونا۔۔۔۔۔۔ الشَّيْءُ: ڈھیر لگانا۔
رَطًا: (ف) رَطًا: القَوْمُ: قوم کو پسندیدہ امر میں پھنسانا دینا۔۔۔۔۔۔ بِسَلْبِجِهِ: پاخانہ کرنا	الرُّطْبُ والرُّطْبُ: سبز چارہ۔ الرُّطْبُ: پختہ تازہ بھجور۔ واحد (رِطْبَةٌ): جِ رِطَابٌ وَأَرِطَابٌ۔ الرُّطْبِيَّةُ: گھاس نما پودہ تین پتوں والا۔ بنفشہ رنگ پھولوں والا جنگل میں اور زراعت کیا جاتا ہے۔ الرُّطْبِيَّةُ: کھاری کنوئیں کے درمیان بیٹھا کنواں۔	الرُّطْلُ: سبک رفتار گھوڑی۔ الرُّطْلِيَاءُ: ریتلا کی تھیف ہے۔ الرُّطْلُ: مِنَ الرَّجَالِ: نرم۔ لمبا۔ رِطْمَةٌ: (ن) رِطْمًا: کچھڑ میں گرانہ۔ پیچیدہ اور مشکل کام میں پھنسانا۔ رِطْمٌ وَأَرِطْمٌ: فِئِي قَعُوذِهِ: جم کے بیٹھنا۔ وَأَرِطْمٌ الرَّجُلُ: خاموش رہنا۔ رِطْمٌ: البَعِيضُ: اونٹ کو قش کی بیماری ہونا۔ تَرِطْمٌ: السِّلْحُ: پاخانہ روکنا۔ إِرِطْمٌ: کچھڑ میں گرانہ یا پیچیدہ و مشکل کام میں پھنسانا۔۔۔۔۔۔ فِئِي الأَمْرِ: کسی معاملہ میں پھنس جانا۔۔۔۔۔۔ عَلَيْهِ الأَمْرُ: مشتبہ ہونا۔۔۔۔۔۔ الشَّيْءُ: ڈھیر لگانا۔

رَعَاةٌ تَرْعِيَةٌ: کسی سے "رَعَاهُ اللَّهُ" کہنا۔
 إِزْقَعْتُ وَقَرَعْتُ: الماشية: جانور کا چرنا۔
 اسْتَرْعَى اسْتِرْعَاءً: الماشية: چرانے کے لئے کہنا..... مَاشِيَةً: رکھوالی کے لئے کہنا اور اس سے مثال ہے "مَنْ اسْتَرْعَى الذَّنْبَ فَقَدْ ظَلَمَ" جس نے بھیڑیے سے رکھوالی کے لئے کہا اس نے ظلم کیا۔ اس شخص کے لئے بولتے ہیں جو خائن کو کسی چیز کا امین بنائے..... ه السَّمْعُ: توجہ کرنے کو کہنا..... ه الشئ: کسی چیز کی حفاظت کرنے کے لئے کہنا۔

الرعية: چرائی۔
 الرعي والرغوي والرغوي: حفاظت۔

الرعي: مصل۔ کہا جاتا ہے "رعيًا لك" یعنی تمہاری حفاظت ہو۔

الرعي: گھاس۔ ج ازعاء. رعي الحمام. والابل: دو گھاسوں کے نام۔

الرعية: چرنے والا جانور۔ جانور جو چرائے جائیں۔ قوم۔ کسی حاکم کے ماتحت عام لوگ۔ رعايا۔ رعيت المليك اور عاياة: تابع فرمان لوگ۔

الرعاوي والرعاوي: لوگوں کے ارد گرد چرنے والے مویشی۔

الرعاوية: عوام کے مویشی۔
 الارعاوية: شاہی مویشی۔

الرعاوي: قا۔ بہت الفت کرنے والا حاکم قوم

رعاي الماشية: چرواہا۔ مویشی کا نگہبان۔
 رعاة ورعيان ورعاء ورعاء: مؤنث راعية ج رواع. راعية الشيب ورواعية:

بڑھاپے کی ابتداء۔ راعي الجوزاء ورعي النعام: دو ستاروں کے نام۔ راعي البستان وراعية الامن: بڑیوں کی ایک قسم۔ راعية الزاس: جوں۔

الرعي: مصل۔ گھاس۔ ج مراع الرعي (والمزعاة): چراگاہ۔

رَعْنٌ (ن) زَعْنًا وَرَعْنٌ (س) زَعْنًا وَرَعْنٌ (ك) زَعْنُونَةٌ: بے وقوف ہونا۔ ڈھیلا ہونا۔ گنگلو میں طیش والا ہونا۔ صفت (الرَعْن)

رَعْنَتُهُ (ن) زَعْنًا. الشَّمْسُ: دھوپ لگنے سے بے ہوشی طاری ہونا۔

الرَعْن: مصل۔ پہاڑ کی چوٹی۔ اونچا پہاڑ۔ رَعْنان وَرَعْنون.

الرَعْن: چوٹی والا پہاڑ۔ اونچی چوٹی والا۔ الرَعْنون: تیز یا بہت حرکت کرنے والا۔ رات کی تاریکی۔

رَعَايِرُ رَعْوًا وَرَعْوَةً وَرَعْوَةً وَرَعْوَةً: غلطی سے رجوع کرنا۔ اسم (الرَعْووي والرعيان)

الرَعْووي ازعواء. من السجھل: رکنا۔ باز رہنا۔ صفت (مُرعوي): رجوع کرنا۔

رَعِي رَعِيًا وَرَعِيًا وَرَعِيًا وَرَعِيًا: الماشية الكلاء: جانور کا گھاس چرنا..... الماشية: جانور کا گھاس چرانا..... النجوم: ستاروں کے غروب کا انتظار کرنا..... الايض: رعيت ورعاية: امیر کا انتظام مملکت کرنا..... عَلَيْهِ حُرْمَتُهُ: پاس عزت کرنا..... الامر: حفاظت کرنا۔

رَاعِي مُرَاعَاةً. النجوم: ستاروں کے غروب کا انتظار کرنا..... الامر: حفاظت کرنا۔ انجام پر فور کرنا..... الرجل: کسی کے حق پر نگاہ رکھنا۔ رَاعِيَتِ الارض: بہت چراگاہ والی ہونا۔

رَاعِيَتُهُ سَمْعِي: توجہ کرنا۔ کان لگانا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ لَا يَرَاعِي إِلَى قَوْلِ أَحَدٍ" وہ کسی بات کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ الْجَمَّاز: الخمر: گدھے کا گدھوں کے ساتھ چرنا۔

رَاعِي. الماشية: جانور کو چرانا..... السكبان: چراگاہ بنانا..... عَلَيْهِ شَفَقَتٌ مَهْرَبَانِيَةٌ: رَاعِيَتُهُ سَمْعِي: بات سنا۔ رَاعِيَتِ الارض: بہت چراگاہ والی ہونا..... اللہ الماشية: چری اگانا۔

والی تلواری کی ضرب۔
 الرَعْل: پہاڑ کی نگلی ہوئی نوک۔ رَعْلُ الرَجُل: کپڑے۔

الرَعْل: شہد کی زکھی۔
 الرَعَال: ریخت۔ ناک کی رطوبت۔
 الرَعَالَةُ: بے وقوفی۔

الرَعْلَةُ: شتر مرغ۔ بکری یا اونٹنی کے کان کے پچھلے حصے کو ناک یا ہوا کھڑا۔ عیال۔ تھوڑے گھوڑوں کا یا گائنیوں کا گلد۔ رَعَال وَرَعَالٍ وَأَرَعَالٍ کہا جاتا ہے "أَقْبَلْتُ السَّخِيلَ رَعَالًا وَأَرَعَالًا" أَرَعَالُ الرِّيحِ أَوْ السَّحَابِ: ابتدائی ہوا میں یا باد۔

الرَعْلَةُ: گھوڑو وغیرہ کی کوئیل۔ رَعْلُ: ریمان و آس وغیرہ کا بنا ہوا تاج۔

الرَعِيل: آگے آگے رہنے والی جماعت (گھوڑوں یا آدمیوں یا پرندوں کی) رَعَال.

الميرعل: شمشیر براں۔
 الميرعل: عمدہ مال۔

المُسْرَعِل: گلد سے نکلا ہوا جانور۔ گلد بان۔ اوٹن والا۔

رَعْمٌ (ن) رَعْمًا. الشئ: گمبھائی کرنا۔
 الشمس: آفتاب کے غروب کا انتظار کرنا۔

رَعْمَتْ (ف) وَرَعْمَتْ (ك) رَعْمَةٌ وَأَرَعْمَتْ. الشاة: بہت دبلی ہونا اور ناک سے رطوبت بہنا۔ صفت (رَعْمون)

رَعْمٌ. الشاة: بکری کی ناک کی رطوبت صاف کرنا۔

الرَعَام: نگاہ کی تیزی۔
 الرَعَام: ریخت۔ ناک کی رطوبت۔ ج ازعامة.

الرَعَامَةُ والرَعَامِي: ایک قسم کا درخت۔
 الرَعَامِي: جگر کی زیادتی۔

الرغم: چربی۔ أم رَعْم: بچہ۔
 الرَعْمون: نفس۔

الرَعْمون: نازک بدن عورت۔

<p>الْمَرْغُوعِيُّ: جوجھ اچائے۔ جس کی حفاظت کی جائے۔</p> <p>رِغَبٌ (س) رِغْبًا وَرُغْبًا وَرِغْبَةً. فِيهِ: چاہنا۔ خواہش کرنا۔ غنہ: اعراض کرنا۔ منہ پھیرنا۔ بے التفاتی کرنا۔ چھوڑ دینا۔</p> <p>بِهْ عَنْ غَيْرِهِ: دوسرے پر تفضیلت دینا۔</p> <p>رِغَبٌ (س) رِغْبًا وَرِغْبًا وَرِغْبَةً وَرِغْبَةً وَرِغْبَةً وَرِغْبَةً وَرِغْبَةً وَرِغْبَةً: خوراری و عاجزی ظاہر کرنا۔ خوراری و ذلت سے مانگنا۔</p> <p>رِغَبٌ (ک) رِغْبًا وَرِغْبًا وَرِغْبَةً: بہت کھاؤ ہونا۔ الوادی: فراخ و کشادہ ہونا۔</p> <p>رِغْبَةٌ وَارِغْبَةٌ: فی الشئ: رغبت دلانا۔</p> <p>رِغْبَةٌ: مرغوب چیز دینا۔ کہا جاتا ہے "ارِغَبِ اللہَ فَذَرِكْ" اللہ تعالیٰ تمہارے مرتبہ کو بلند کرے۔</p> <p>ارِغَبْ. فِيهِ: خواہش کرنا۔ چاہنا۔</p> <p>تَرِغَبٌ. الوادی: کشادہ ہونا۔ الناس فی الخیر: خواہش کرنا۔ رغبت کرنا۔</p> <p>الرِغْبُ: مرغوب۔</p> <p>الرِغْبُ وَالرِغَابُ: مِنَ الْأَرْضِ: بارش کو بہت جذب کرنے والی زمین۔</p> <p>طَرِيقٌ (رِغْبٌ): کشادہ راستہ۔ رِغْبٌ: الرِغْبُ: بہت کھاؤ۔ کہا جاتا ہے "خَوْضٌ رِغْبًا وَسِقَاءٌ رِغْبًا" کشادہ حوض و مٹک۔ حیل رِغْبًا بھاری بوجھ اور کہا جاتا ہے "فَرَسٌ رِغْبًا مَخْطُوطٌ" کشادہ قدم والا گھوڑا۔ رِغَابٌ: الرِغَابُ: خواہش کرنے والا۔ رغبت کرنے والا۔</p> <p>الرِغْبِيَّةُ: رِغْبٌ: کاموث۔ امر مرغوب۔ بہت عطیہ۔ رِغَابٌ: رِغْبٌ: رِغْبٌ (ف) رِغْبًا: الولد اُمُّہ: ماں کا دودھ پینا۔ ہ: لگاتار نیزے مارنا۔ السُّقُومُ فَلَانًا: سوال کر کے سارا مال ختم کر دینا۔</p> <p>رِغْبٌ: کسی سے بہت سوال کیا جانا اور اس</p>	<p>کی وجہ سے سارا مال ختم ہونا۔ پستان کی رگوں میں درد ہونا۔</p> <p>ارِغَثٌ. الْمَرْأَةُ: دانی پلائی ہونا۔</p> <p>وَلَدَهَا: دودھ پلانا۔ صفت (رِغْثُوتٌ وَرِغْثُوقَةٌ وَرِغْثٌ): ارِغْثُہ: پستان کی رگوں میں نیزہ مارنا۔ بار بار نیزہ مارنا۔</p> <p>ارِغَثٌ. الْوَلَدُ اُمُّہ: بچے کا اپنی ماں کا دودھ پینا۔</p> <p>الرِغْثَاءُ: پستان کی وہ رگیں جن سے دودھ نکلتا ہے۔</p> <p>الرِغْثُ: انگلی میں انگوٹھی کی جگہ۔</p> <p>رِغْدٌ (س) رِغْدًا وَرِغْدًا: (ک) رِغَادَةٌ عِشٌّہ: آسودہ و خوش حال ہونا۔ عیش کی صفت (رِغْدُو رِغْدُو وَرِغْدِي) ارِغْدُ. الْقَوْمُ: آسودہ زندگی والی ہونا۔</p> <p>سَوَاطِينِهِمْ: جانوروں کے چرنے کے لئے آزاد چھوڑنا۔ اللہ عِشٌّہ: آسودہ بنانا۔</p> <p>ارِغَادٌ: رائے میں متردد ہونا۔ اللَّبَنُ: دودھ کا کچھ کچھ کاڑھا ہونا۔</p> <p>اسْتَرِغْدُ. الْعَيْشُ: آسودہ زندگی پانا۔ قَوْمٌ (رِغْدٌ) وَنِسَاءٌ رِغْدٌ: آسودہ زندگی والی قوم اور یہ رِغَادُ کی جمع ہے جیسے خَادِمٌ: کی جمع خَدَمٌ.</p> <p>الرِغْدِيَّةُ: ایک قسم کا کھانا جو جوش دینے ہوئے دودھ میں آنا ڈال کر تیار کیا جاتا ہے۔</p> <p>الرِغْدَةُ: باغ۔</p> <p>رِغْسَةٌ (ف) رِغْسًا وَارِغْسَةٌ. اللہ مَالًا: ولدًا: بہت دینا۔</p> <p>اسْتَرِغْسَةٌ: نرم سمجھنا۔</p> <p>الرِغْسُ: ثبوت و برکت۔ موم۔ رِغْسًا: الرِغْسُ: من العیش: فراخ زندگی۔</p> <p>الرِغْسُ: مبارک۔</p> <p>الرِغْسُوعُوسَةُ: اَطْرَعُوسُ: کاموث۔ کثرت سے بچے بننے والی عورت۔</p> <p>رِغْسٌ (ف) رِغْسًا: عَلَيْهِ: شور مچانا۔</p> <p>رِغْفٌ (ف) رِغْفًا: الْعَجِيْنُ: گندھے</p>	<p>ہوئے آٹے کا بیڑہ بنانا۔ البعير: اونٹ کے منہ میں کسی چیز کا ڈالنا۔</p> <p>ارِغْفٌ: چلنے میں جلدی کرنا۔ اَلِيْہِ: تیز نظر سے دیکھنا۔</p> <p>الرِغْفِيُّ: گندھے ہوئے آٹے کا بیڑا۔</p> <p>چِطَانِي رُوْتِي: رِجْ ارِغْفَةٌ وَرِغْفٌ وَرِغْفَانٌ وَتَرِغْفِي. وَجْہ (مُرْغَفٌ): سخت چہرہ۔</p> <p>رِغْلٌ (ف) رِغْلًا: الْوَلَدُ اُمُّہ: بچے کا اپنی ماں کا دودھ پینا۔</p> <p>ارِغْلٌ. الرِجْلُ: غلطی کرنا۔ گمراہ ہونا۔ اَلِيْہِ: مال ہونا۔ الرِزْغُ: کھیتی کی خوشوں میں اچھا دانہ بیٹھنا۔ الشئ: بے موقع رکھنا۔</p> <p>الرِجْدِي اُمُّہ: بکری کے بچے کا اپنی ماں کا دودھ پینا۔ السَّكَّانُ: رِغْلُ تَامِي لُغَاسِ: اگاتا۔ العناء: بہت گرانا۔</p> <p>الرِغْلُ: ایک قسم کی کڑوی لگھاس۔ رِجْ ارِغَالٌ.</p> <p>الرِغْوَالُ: اپنی ماں کا دودھ پینے والا بکری کا بچہ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ رِغْوَالٌ" وہ بچہ جو کو غنیمت سمجھتا ہے اور چٹ کر جاتا ہے۔</p> <p>الرِغْوَالُ: مِنَ الْعَيْشِ: فراخ زندگی۔</p> <p>الرِغْلَةُ: بکری۔ بھیر کرنا۔</p> <p>رِغْمَةٌ (ف) رِغْمًا: مغلوب و مجبور کرنا۔</p> <p>رِغْمٌ الشئ: ناپسند کرنا۔</p> <p>رِغْمٌ (س) وَرِغْمٌ (ن) ارِغْمًا وَرِغْمًا. اَنْفُہ لِيْہِ: ذلیل ہونا۔ فروتنی کرنا۔ صفت (رِغْمٌ) الْاَنْفِ: رِجْ رِغْمٌ الْاَنْوْفِ: وَرِغْمَةٌ: ناپسند کرنا۔</p> <p>رِغْمَةٌ: ذلیل کرنا اور رِغْمًا رِغْمًا: کہا۔</p> <p>اَنْفُہ: خاک آلود کرنا۔ کہا جاتا ہے "رِغْمٌ اللہ اَنْفُہ" یعنی اللہ اس کو ذلیل کرے۔</p> <p>فُلَانٌ اَنْفُہ: فروتنی کرنا۔</p> <p>ارِغْمَةٌ: ذلیل کرنا۔ ناراض کرنا۔ ناپسندیدہ کام پر آکسانا۔ ہ: السُّدُّ: خاک آلود کرنا۔ ارِغْمٌ اَهْلُہ: اپنے اہل کو ناپسندیدگی</p>
---	---	--

سے چھوڑنا..... اللُّقْمَةُ مِنْ فِيهِ: لقمہ کومرہ
سے مٹی میں ڈالنا..... اللَّهُ أَنْفَهُ: ذلیل کرنا۔
أَزْعَمَتِ الْغَنَمُ أَوْ الظَّبَاءُ: بکری بھیڑ یا ہرن
کی ناک سے پانی بہنا۔
رَاغَمَهُ: یا ہم غضبناک ہونا۔ ایک دوسرے کو
چھوڑنا۔ دشمنی کرنا۔ غصہ سے علیحدہ ہونا۔
تَرَعَّمْ عَلَيْهِ: غضبناک ہونا۔ تَرَعَّمْتُ
الرَّجُلَ: کسی کے مزاج کے خلاف کام کرنا۔
الرَّغْمُ وَالرَّغْمُ وَالرَّغْمُ: ناپسندیدگی۔
مجبوری۔ ذلت۔ مٹی۔ کہا جاتا ہے "آسی
علی رَغْمِهِ" وہ باوجود اس کی ناپسندیدگی
کے آیا۔
الرَّاعِمُ: قارِ رَاعِمِ الْأَنْفِ: ذلیل۔ ج رُغْمُ
الْأَنْوْفِ.
الرَّغَامُ: مٹی یا مٹی ملی ہوئی ریت۔
الرَّغَامُ: رینٹ۔ ج أَرَعَمَتْ.
الرُّغَامَةُ: حاجت۔ مطلوب۔ کہا جاتا ہے
"لِي عِنْدَ فَلَانٍ رُغَامَةٌ" مجھے فلاں کے پاس
ضرورت ہے۔
الرَّغَمَاءُ: مِنَ الشَّيْءِ نَاكٍ كَالرَّغَمِ: پر
سفیدی والی یا جسم کے رنگ کے مخالف رنگ
والی بکری۔
السَّرْعَمُ وَالسَّرْعَمُ: ج مَرَاعِمُ
(وَالرُّغَامِي) ناک الرُّغَامِي: جگر کی
زبانی۔ پھیپھڑوں کی رگیں۔
السَّرَاعِمُ: مفتح۔ بھاگنے کی جگہ۔ جانے کی
جگہ۔ کہا جاتا ہے "إِذْ لَسِي عِنْدَ الْهَوَايِ
مَرَاعِمُ" میرے لئے ذلت کے مکان سے
بھاگنے کی جگہ ہے۔ قلعہ۔
السَّرْعَمَةُ: ناپسندیدگی۔ کہا جاتا ہے "فَعَلْتُ
ذَلِكَ عَلَى مَرَعَمَتِهِ" میں نے اس کو
باوجود اس کی ناپسندیدگی کے کیا۔
السَّرْعَامُ: غضب میں ڈالنے والا۔ مَوْرَثُ
مِرْعَامَةٍ.
رَغْنٌ (ف) رَغْنَا فِيهِ: لالچ کرنا۔ إِلَيْهِ
کان لگانا۔
أَزْعَنَهُ: طمع دلانا۔ أَرْعَنَ الْأَمْرَ: آسان کرنا

..... إِلَيْهِ: کان لگانا۔ أَرْعَنَ لِفُلَانٍ: اطاعت
و فرما تبہرداری کرنا۔
الْأَرْعَنُ وَالْأَرْعُنُونَ: (آرگن) (ایک باج
کا نام)
رَعَا: (ن) رُعَاءُ. البَسِيرُ أَو النَّعَامُ
أَوْ لِضَبْعٍ: بلبلانا۔ چیننا..... الضَّبْعُ: بہت
رونا۔
..... الرُّعْدُ: زور سے گرجنا۔
رَعَا: (ن) رُعْوًا رَعَى تَرْغِيَةً وَأَرْعَى
إِرْعَاءً. اللَّيْنُ وَنَحْوَهُ: دودھ پر جھاگ آنا۔
کہا جاتا ہے "أَرْعَى الرَّجُلُ وَأَزْبَدَ" مرد
غضب کی وجہ سے چینا اور اس نے دھمکی
دی و "أَتَيْتُهُ فَمَا أَتَعَى وَلَا أَرْعَى" میں اس
کے پاس آیا تو اس نے نہ تو بکری دی نہ اونٹنی
..... ہ: ذلیل کرنا۔ مظلوم کرنا۔ و رَعَى
فُلَانًا: غضبناک کرنا۔
إِرْعَى. اللَّيْنُ: دودھ سے جھاگ اتار لینا
..... الرُّعْوَةُ: جھاگ پینا۔
السَّرْعَوَةُ وَالرُّعْوَةُ وَالرُّعْوَةُ: ج رُغْمُ
و رَعَى (وَالرُّعَايَةُ وَالرُّعَايَةُ وَالرُّعَاوَةُ
وَالرُّعَاوِيُّ وَالرُّعَاوِيُّ) مِنَ اللَّيْنِ: دودھ
کا جھاگ۔
الرُّعَايَةُ: اونٹنی۔ کہتے ہیں "مَسَالَةُ تَاعِيَةٍ وَلَا
رُعَايَةٍ" نہ تو اس کے پاس بکری ہے نہ اونٹنی۔
المِرْعَاةُ: کنگیر۔
المِرْعَى: مِنَ الْكَلَامِ: مبہم گفتگو۔
رَفٌّ (ن) رَفًّا: بہت کھانا..... ہ:
خدمت کرنا۔ بھلائی و احسان کرنا۔ ہر قسم کی
خدمت کرنے میں کوشش کرنا..... النَّاسُ بِهِ:
گھیر لینا..... بہ: اکرام و تعظیم کرنا۔ کہا جاتا
ہے "ذَهَبَ مَنْ كَانَ يَحْفَهُ وَيُرْفُهُ" وہ شخص
چلا گیا جو اس پر نوازش و مہربانی کرتا تھا۔
الْبَيْتُ: گھر میں الگ بنانا..... الی کذا: خوش
ہونا۔ رَفَّتْ عَيْنُهُ: پھڑکنا..... الرَّفِيُّ: بجلی کا
چمکنا..... شَفْتِيَهُ: ہونٹ کا چوسنا۔
..... اللَّيْنُ: ہر روز دودھ پینا..... تَوْبَهُ: دوسرا
کپڑا لگا کر نیچے سے کشادہ کرنا۔

الذَّابَةُ: بھوسہ کھلانا۔
رَفَّتْ (ش) رَفًّا وَرَفِيْفًا وَأَرْفَتْ.
النَّبَاتُ: لہلہانا۔ رَفَّتِ الْعَيْنُ: پھڑکنا۔
رَفَّتِ الرَّبْقُ: بجلی چمکنا۔ رَفَّتْ لَوْنُهُ: چمک
اٹھنا۔
أَرْفَتْ إِرْفَافًا. الطَّائِرُ: پرندے کا دونوں بازو
پھیلا نا۔
الرَّفِّ: بمص۔ الگنی۔ لکڑی وغیرہ جس کے
دونوں کنارے دیوار میں لگا کر گھر کا سامان
رکھ دیں۔ ریت کی باریک ٹوک۔ مویشی کا
گلہ یا پرندوں کی ڈار۔ بکریوں کا باڑہ۔ ملائم
کپڑا۔ ج رُفُوفٌ وَرِفَافٌ.
الرَّفِّ: اونٹوں کا گلہ۔ ہردن کا پینا۔ کہا جاتا
ہے "أَخَذْتَهُ الخَمْسِي رِفًا" اس کو روزانہ بخار
آیا۔
الرَّفُّ وَالرُّفَّةُ: بھوسہ و بھوسہ کا چورہ۔
الرُّفَافُ: بھوسہ کا چورہ۔
الرَّفِيْفُ: بمص۔ چھت۔ فراخ سالی.....
فَسِي رَفِيْفٌ الْأَخْلَاقُ: اچھے اخلاق والا
جوان۔
الرُّفَافُ: اسم مبالغہ۔ کہا جاتا ہے "سَغِرُ
رَفَافٌ" سفید و شفاف دانت۔
رَفًّا: (ف) رَفًّا. الرُّفُوبُ: کپڑے کو نوٹ کرنا۔
مرمت کرنا..... ہ: خوف سے تسکین دینا۔
مدد دینا..... بَيْنَهُمْ: صلح کرنا..... السَّفِيْنَةُ:
کشتی کو کنارہ پر لانا۔
رَفَاءَةٌ تَرْفِيْفَةٌ وَتَرْفِيْفًا: مبارک باد دینا اور
"بِالرُّفَاءِ وَالْبَيْنِ" کہنا (بِالرُّفَاءِ وَالْبَيْنِ):
شادی کرنے والے کے لئے دعا ہے کہ تم
دونوں میں اتفاق و اتحاد رہے اور تمہارے
بچے پیدا ہوں۔
أَرْفَأَ إِلَيْهِ: قریب ہونا اور پناہ لینا۔
النَّسِيُّ إِلَيْهِ: قریب کرنا..... الرَّجُلُ: کنگھی
کرنا۔
..... السَّفِيْنَةُ: کشتی کا کنارہ سے قریب ہونا۔
أَرْفَأَهُ وَرَفَأَهُ: مدارات کرنا۔ مدد کرنا۔
الرُّفَاءُ: اتفاق۔

الزَّفَاءُ: رَنُوْغِر۔

السَّمْرُقَاُ وَالْمُرْقَاُ: مِنَ الْبَحْرِ: بِنَدْرَاةٍ۔ ج مَرَاثِي۔

رَقَّتْ: (ن ض) زَقَفَا. الشَّيْ: تَوَزَّنَا، كَوْنَا، چورہ کرنا (.....) وَأَرْقَتْ وَتَرَقَّتْ: تَوْنَا، چورہ ہونا..... الْعِظْمُ: رِيْزِه رِيْزِه ہونا۔

الْحَيْلُ: رِيْ كَا كَث جَانَا۔

الرُّوْفُ: مَبْسُوْس۔ ہر چیز کو توڑنے والا۔

السَّرْقَاتُ: چورہ۔ رِيْزِه۔ ہر وہ چیز جو ٹوٹ جائے اور بوسیدہ ہو جائے۔

رَقَّتْ: (ن ض) زَقَفَا وَرَقَّتْ: (س) زَقَفَا وَأَرْقَتْ. فِيْ مَخْلَابِهِ: خَشَّ كَوْنِيْ كَرْنَا۔

الرُّوْفُ: مَعْصُ۔ گندی گتنگو۔ جماع۔

رَقْحَةُ: نَبِيْ شَادِيْ وَاللَّوْ كُوْمَارَا كِبَادِيْنَا۔

رَفَخَ عَيْشُ رَافِحٍ: نَارُوْمَتِ كِيْ آسُوْدَه زَمْدِي۔

الرُّوْفُوْخُ: مَبْسِيْبِيْن۔

رَقْدَةُ: (ض) زَقْدَا وَأَرْقَدَةُ: دِيْنَا۔ مَدُو دِيْنَا۔

رَقْدَةُ الْحَايِطُ: سَبَارَا دِيْنَا۔ رَقْدَةُ الدَّابَّةِ وَعَلَيْهَا وَأَرْقَدَلَهَا: چوپایہ کے لئے پالان بنانا۔

رَاقِدَةٌ: مَدُو دِيْنَا۔

رَقْدَهُ: تَعْلِيْمُ كَرْنَا۔ سَرْدَارَا بِنَانَا۔

تَرَاقَدُ الْقَوْمُ: يَا هُمْ مَدُو كَرْنَا۔

إِرْقَادُ الْمَالِ: كَمَا نِي كَرْنَا۔ حَاصِل كَرْنَا۔

إِسْتِرْقَادُهُ: عَطِيْهَ طَلَب كَرْنَا۔ مَدُو طَلَب كَرْنَا۔

السَّرْقِدُ: مَعْصُ۔ حَصْرُ بَرَا بِيَالِه۔ كَمَا جَانَا هِي "أَرْبِيْقُ رَقْدُهُ" اس کا انتقال ہو گیا۔

السَّرْقِدُ: ہر وہ چیز جو دوسرے کے ساتھ بڑھا دی جائے تاکہ اس کے لئے سہارا ہو جائے۔ عَطِيْه۔ مَدُو۔ بَرَا بِيَالِه۔ ج مَرْقَادِدُ رَقُوْدُ۔

الرِّقْدَةُ: لَوْغُوْ كِيْ جَمَاعَتِ۔ ج رَقْدُ۔

الرِّقْدُ: قَا۔ بَادِشَاہ كِيْ عَثِيْبَتِ مِيْنِ اس كَا قَاتِمُ مَقَامِ۔ ج رَقْدُ۔

الرِّقْدَانُ: دَرِيَا ئُو جِلْدُو فَرَاتِ۔

السَّرْقَادَةُ: پل کے اوپر چھت کی لکڑی۔ عوام

اسے "وُضْلَةٌ": کہتے ہیں۔ ج زَوَافِدُ۔

السَّرْقَادَةُ: زَرْخُمِ كِيْ پٹی۔ زِيْن۔ زِيْن يَا كِبَادِه كِيْ سہارے کی چیز۔

نَاقَةٌ (رَقُوْدُ): اِيْكُ دَفْعُ كِيْ دُوْحِنِيْ مِيْنِ بِيَالِه مَجْرُنِيْ وَالِيْ أُوْمِنِيْ۔ ج رَقْدُ۔

السَّرْقَادُ وَالسَّرْقَادُ: مَدُو۔ ج مَرَاقِدُ۔

السَّرْقَادُ: بَرَا بِيَالِه۔ ج مَرَاقِدُ۔

السَّرْقَادِيْدُ: كَبْرِيَا لِحْنِ كَا دُوْدَه جَارِيْ يَا كَرْمِيْ مِيْنِ كَمْحِيْ خَتْمُ نَدُو۔

السَّرْقَادُ: بَارِيْ كَرْمِ۔

رَقْرَقَ الطَّائِرُ: پرنڈے کا پھڑ پھڑانا..... الشَّيْ: آدَا كَرْنَا۔

السَّرْقَرَفُ: كَلْزِيْ وَغِيْرَه جَس كِيْ دُوْنُوْ كِنَارِيْ دِيُوَارِ مِيْنِ لُكَ كَرْمُ كَا سَامَانِ اس پر رکھ دیں۔ خِيْمَه كَا دَامِنِ۔ زَرَه كِيْ كِنَارِيْ

زَرَه كَا تَلْكَا ہوا حصہ۔ درخت وغیرہ کی لگتی ہوئی شاخیں۔ ہر چیز جو زائد ہونے سے موڑ دی جائے۔ فَرَش۔ بچھونا۔ تَكِيْهَ بَارِيْ كَرْمِيْ كِيْزَا۔ كِيْزِيْ كِيْ اِيْكِ چٹ جس کو پردہ یا خیمہ کے نچلے حصہ میں سیتے ہیں۔ كَمَا جَانَا هِي "ضَرْبَتِ الرِّيْحُ زَقْرَفَ الْفَسْطَاطِ" ہوا نے خیمہ کے دامن کو ادھر ادھر کر دیا۔ زَقْرَفُ الدِّيْرُوعِ: زَرَه كَا وَهْ جَس كُو خُوْدُو سِيْ بَانْدَه كَر بِيْجِهَ پَرَا لِيْتِيْ ہيْنِ۔ ج زَقَارِفُ۔

الرَّقْرَافُ: اِيْكُ پرنڈہ جس کو "مَخَاطِفُ طَيْلَه" بھی کہتے ہیں۔ زَرْخُ مَرْخُ۔

رَقْرَهَ: (ض) زَقْرَفَا: مَارْنَا۔

الرَّقْرِقُ: حَرَكَتُ كَرْنِيْ وَالِيْ رَغِ۔

رَقْسَةٌ: (ن ض) زَقَسَا وَرَقَسَا: سِيْنِيْ پَر مَارْنَا..... التَّبَعِيْرُ: أُوْمَتُ كِيْ پَاؤُلِ بَانْدَهْنَا..... اللَّحْمُ وَنَحْوُهُ: كُوْمَتُ كَا قِيْمَه كَرْنَا۔

السَّرْقَاسُ: أُوْمَتُ كِيْ پَاؤُلِ بَانْدَهْنِيْ كِيْ رِيْ۔

الرَّقْسَةُ: سِيْنِيْ پَر لَات مَارْنَا۔

نَاقَةٌ (رَقُوْسُ): دُوْلَتِيْ مَارْنِيْ وَالِيْ أُوْمِنِيْ۔

رَقَشُ: (ن) زَقَشْنَا: كَمْحَانِيْ پِيْنِيْ مِيْنِ قَائِدِه

اَشْهَانَا۔ خُوْب كَمْحَانَا بِيْنَا..... الْقَمِيْحُ: گيْہوں كو بيلچے سے اٹھا کر لے جانا..... الشَّيْ: كُوْنَا

(.....) زَقُوْشًا: فِيْ الْأَمْرِ: كَشَادَه ہونا۔

رَقَشُ (س) زَقَشْنَا: چوڑے کانوں والا ہونا صفت (أَرْقَشُ) مَوْثَرَقَشْنَا: ج رَقَشُ۔

رَقَشُ: لِيْحِيْنَه: دَاوَحِيْ مِيْنِ كَمْحَا كَرْنَا۔

السَّرْقَاشُ: گيْہوں كو بيلچے سے اٹھا اٹھا کر ماپنے والے کے پاس ڈالنے والا۔

السَّرْقَاشُ: مَعْصُ۔ بيلچہ۔ كَمْحِيْ كَا چپو۔

السَّرْقَاشَةُ: بيلچہ۔

رَقَصُ: تَرَاقَصُوا الْمَاءُ: بَارِيْ بَارِيْ پَانِيْ پَر آنا۔ ہر ايك آنے والے کو (رَقِيْصُ): کہتے ہیں۔ كَمَا جَانَا هِي "هُوَ رَقِيْصُكَ": دُوْ تَمْهَارَا پَانِيْ پِيْنِيْ مِيْنِ سَامْحِيْ ہيْ۔

إِرْقَاصُ: السَّغَرُ: بَحَاؤُ كَرَا ل كَرْنَا۔

الرَّقِيْصَةُ: پَانِيْ پِيْنِيْ كِيْ بَارِيْ۔

رَقِيْصُ: (ن ض) رَقِيْصَا وَرَقِيْصَا. الشَّيْ: بِيْجِيْنَا كَمْحُوْرْنَا۔ صَفْتُ رَقِيْصُ ج رَقِيْصُوْنُ وَرَقِيْصَه وَرَقِيْصَا (.....) وَأَرْقِيْصُ: الْاَبْلُ: جَرَا گاه مِيْنِ مَتَرَقُ كَر دِيْنَا۔ رَقِيْصُ وَأَرْقِيْصُ: الْوَادِيْ: كَشَادَه ہونا۔

تَرَقِيْصُ: كَمْحَرْنَا۔ مَتَرَقُ ہونا۔ تَوْنَا۔

الدَّمْعُ: آ نَسُوْبَهْنَا اور كَمْحَرْنَا۔

إِرْقَاصُ: الدَّمْعُ: آ نَسُوْبَهْنَا وَبِيْجِيْنَا..... الْجُرْحُ: زَرْخُمِ سِيْ پِيْپِ بَهْنَا..... الشَّيْ: مَتَرَقُ ہو کر جانا اور اسی سے ہے "إِرْقَاصُ النَّاسِ عَنْهُ" لوگ متفرق ہو کر چلے گئے.....

الْوَجْعُ: دَرْدُ كَا زَاكُلُ ہونا۔

إِسْتِرْقَاصُ: الْوَادِيْ: كَشَادَه ہونا۔

السَّرْقَاصُ: مَعْصُ..... رَقَاصُ وَ (الرَّقِيْصُ): ج مَرْقَاصُ: أُوْمِنِيُوْ يَا ہر نِيُوْ كَا مَتَرَقُ كَلِه۔ كَمَا جَانَا ہيْ "تَعَامُ رَقِيْصُ تَمُوْرُوْ سِيْ مَتَرَقُ شَر مَرْخُ۔ جِيْزُ كَا كَمْحَرَا ہوا حصہ۔ تَمُوْرِيْ جِيْزِ۔ كَمَا جَانَا ہيْ "فَمِي الْقِيْرَبَةُ رَقِيْصُ مِنْ مَاءٍ" مَنَك مِيْنِ تَمُوْرَا سَا پَانِيْ ہيْ۔

السَّرْقَاصَةُ: جَبْكَ وَغِيْرَه مِيْنِ اِيْنِيْ قَائِدُو رَهْمَا

کو چھوڑ دینے والی جماعت۔ نَزْوِ الْفِضِ اور اسی سے ہے "لَا خَيْرَ فِي الزَّوَالِضِ". الرِّفَاضَةُ: شیعوں کی ایک جماعت اور نسبت کے لئے "زَافِضِي"۔

الرِّفَاضُ: پریشان راستے۔

الرِّفَاضُ: مِنَ الشَّيْءِ: بگڑے۔ ریزے۔

زَجُلٌ (قَبِيضَةٌ رُقِيضَةٌ): قبضہ کرنے والا اور چھوڑ دینے والا مرد۔

الرُّفُوضُ: متفرق گھاس۔ رُفُوضُ النَّاسِ: لوگوں کے گروہ۔ رُفُوضُ الْأَرْضِ: زمین جو کسی کی ملکیت نہ ہو۔ زمین جو جیجی ہونے کے بعد چھوڑ دی گئی ہو۔

الرِّفِيزُ: چھوڑا ہوا۔ پینے۔ ٹوٹا ہوا نیزہ۔

الرِّفِيزُ وَالْمَرْفُوضُ: چھوڑا ہوا۔

السَّرْفِيزُ: مِنَ الزَّوَادِي: سیلاب پینے کی جگہ۔ نَجْرُ الْفِيزِ

رَفَعَ: (ف) رَفَعَا الشَّيْءَ: اٹھانا۔ فَلَاتَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْمَجْلِسِ: آگے بڑھانا۔

السُّلْمَةُ: رَفَعَ كِ عِلَامَتَ لَهَا الشَّيْءَ: لِيَتَانِ: الشَّيْءُ فِي خَزَائِنِهِ: چھپانا۔

السُّلْمَةُ فِي السُّرِّ: چلنے میں جلدی کرنا۔ الْقَوْمُ: بگڑنے میں گھٹے چلے جانا۔ السُّجْمَلُ: تیز چلانا۔ السُّجْمَلُ: پہلے قائل تک سند پہنچانا۔

رَفَعَا وَرَفَاعًا وَرَفَاعَةً: الْقَوْمُ الزُّرْعُ: کاٹنے کے بعد کھلیاں میں لے جانا۔

رَفَعَا وَرَفَعَانًا زَيْدًا إِلَى الْحَاكِمِ: فیصلہ کرانے کے لئے جانا۔ إِلَى السُّلْطَانِ: جیش کرنا۔ قریب کرنا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا أَمْرٌ يَرْفَعُ الرَّاسَ" یہ ایسا امر ہے جو سر کو بلند کر دیتا ہے یعنی باعث مجد و بزرگی ہے۔ "وَفُلَانٌ لَا يَرْفَعُ الْقَضَا عَنْ عَابِقِهِ" یعنی وہ بہت ستر کرتا ہے۔

رَفَعَ: (ک) رَفَعَةً وَرَفَاعَةً: عالی مرتبہ ہونا۔ صفت (رَفِيعٌ) وَرَفَعَ رَفَاعَةً: بلند آواز والا ہونا۔ النَّوْبُ: باریک ہونا۔ صفت (رَفِيعٌ)

رَفَعَ: لَهُ الشَّيْءُ: دوسرے دیکھنا۔ رَفَعَهُ: بلند کرنا۔ رَفَعَ الْقَوْمَ: لڑائی سے دور کرنا۔

رَفَعَهُ: إِلَى الْحَاكِمِ: شكايت کر کے فیصلہ کے لئے حاضر کرنا۔ ه: قطع تعلق کرنا۔ بھیم: رحم کرنا۔

تَرَفَعَ: بترتری ظاہر کرنا۔ کہا جاتا ہے "تَرَفَعْتُ بِنِي هَمْتِي عَنْ كَذَا" میری ہمت نے مجھ کو اس سے بتر بنا دیا ہے الشَّيْءُ اَوِ الرَّجُلُ: بلند کرنا۔

تَرَفَعْنَا: اِيك دوسرے کو بلند کرنا۔ السُّخْصَمَانُ إِلَى الْحَاكِمِ: فیصلہ کے لئے جانا۔

إِرْتَفَعَ: بلند ہونا۔ السُّبْعُ: بجاؤ گراں ہونا۔ النَّهَارُ: دن کا چڑھنا۔ دراز ہونا۔

السُّبْعُ: مِنَ السُّبْعِ: دشنی زائل ہونا۔ الشَّيْءُ: بلند ہونا۔ اِسْتَرَفَعَ: الشَّيْءُ: اٹھانے کو کہنا۔

السُّخْوَانُ: دسرخوان خالی ہونا اور اٹھانے کا وقت آنا۔ الرِّافِعُ: قاب۔ تَبْرُقُ رَفِيعٌ: چپکنے والی بگلی۔

الرِّفَعَةُ: مِصْرٌ۔ بِلندي و مرتبہ۔ السَّرْفَاعُ وَالرِّفَاعُ: بھکتی میں دانے کا مونا ہونا۔ کئی ہوئی بھکتی کا کھلیاں میں لے جانا۔

السَّرْفَاعَةُ وَالْمَحْلُ: (فارسی کلمہ): بوجھ اٹھانے کا اوزار۔ کرین۔ پھر توڑنے کا آلہ بھاری اشیاء توڑنے کا آلہ جس کا دوسرا نام القبان بھی ہیں فنیٹی جس کو المَقْفُصُ بھی بولتے ہیں۔ دینارہ جس کو المِلْقَطُ بولتے ہیں۔ چپٹی جس کو المِكَسَّرَةُ بولتے ہیں۔ ☆

الرَّفَاعَةُ وَالرِّفَاعَةُ وَالرِّفَاعَةُ: مِنَ الصُّوْبِ: آواز کی بلندی و شدت۔ السَّرْفَاعَةُ وَالرَّفَاعَةُ: گلدی جس کو عورتیں اپنے سر میں بڑا معلوم ہونے کے لئے باندھتی ہیں۔ السَّرْفِيعَةُ: حاکم کے سامنے پیش کیا ہوا معاملہ۔

السَّرْفُوعُ: مِصْرٌ۔ اِيك قسم کی تیز دوڑ۔ مِنَ

الْكَلَامِ: بِلندي گفتگو۔ وَالْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ: وہ حدیث جس کی سند نبی کریم ﷺ تک متصل ہو۔

الْإِرْتِفَاعُ: اَر بَاب مَسَاحَةِ: کے نزدیک بلندی مثلث یا اضلاع والی یا مخروطی شکل میں۔ دو قاعدوں کے درمیان ایک عمود (علم مستدسہ والوں کے نزدیک) کسی ستارے کا بلند ہونا (قلیبات میں) وہ زاویہ جو کہ افق اور زمین و کوکب کے درمیان واقع ہونے والے سیدھے خط کے درمیان ہو۔

الْمَرْفُوعُ: بِلندي کرنے کا آلہ۔ السَّرْفُوعُ وَالْمَرْفُوعُ: عِنْدَ الْمَسِيحِيِّينَ: مسیحیوں کے روزہ سے پہلے کچھ مقررہ دن۔

رَفَعَ: (ک) رَفَاعَةً: العَيْشِ: کشادہ و آسودہ ہونا۔ صفت (رَافِعٌ وَرَفِيعٌ وَرَفِيعٌ) رَفَعَ: لَهُ الْمَغَاشُ: آسودہ و کشادہ بنانا۔

تَرَفَعَ: آسودگی میں زندگی بسر کرنا۔ جَمَاعٌ: کے لئے عورت کی دونوں رالوں کے درمیان بیٹھنا۔

السَّرْفُوعُ: نَجْرُ أَرْفَعٍ وَوِقَاعٌ: وادی کی بہت بری جگہ۔ بہت خاک والی زمین۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ بِمَسَالِ تَكْرَفِعِ الثَّرَابِ" یعنی وہ بہت زیادہ مال لایا۔ گوشہ۔ نَجْرُ أَرْفَاعٍ وَرَفُوعٌ: جسم میں میل جمع ہونے کی جگہ۔ جوار کا بھوسہ۔

أَرْفَاعُ النَّاسِ: نا اہل و کمینے لوگ۔ الرَّفَعُ وَالرَّفَاعَةُ وَالرَّفَاعِيَّةُ: آسودہ زندگی بکسٹ رَفَعَ: نِزَمٌ: چومنے کا گارہ۔ السَّرْفُوعُ: ناخن کا میل۔

السَّرْفُوعُ: بِلغْل۔ اِنْدَامِ نَهَانِي كَارِدِ رُودِ اَوِ رَاسِي سِے ہے "إِذَا النَّفْسِي السَّرْفُوعَانُ وَجِبْتُ الْفُغْسَلُ" یعنی جب دونوں شرمگاہ مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔

السَّرْفُوعُ: ناخن کا میل۔ السَّرْفَاعُ: كِبْرَانٌ وَبِغْلٌ (جمع ہے اور اس کا واحد نہیں۔)

السَّرْفُوعَةُ: كِبْرَانٌ وَبِغْلٌ (جمع ہے اور اس کا واحد نہیں۔)

السَّرْفُوعَةُ: كِبْرَانٌ وَبِغْلٌ (جمع ہے اور اس کا واحد نہیں۔)

السَّرْفُوعَةُ: كِبْرَانٌ وَبِغْلٌ (جمع ہے اور اس کا واحد نہیں۔)

السَّرْفُوعَةُ: كِبْرَانٌ وَبِغْلٌ (جمع ہے اور اس کا واحد نہیں۔)

السَّرْفُوعَةُ: كِبْرَانٌ وَبِغْلٌ (جمع ہے اور اس کا واحد نہیں۔)

السَّرْفُوعَةُ: كِبْرَانٌ وَبِغْلٌ (جمع ہے اور اس کا واحد نہیں۔)

السَّرْفُوعَةُ: كِبْرَانٌ وَبِغْلٌ (جمع ہے اور اس کا واحد نہیں۔)

السَّرْفُوعَةُ: كِبْرَانٌ وَبِغْلٌ (جمع ہے اور اس کا واحد نہیں۔)

السَّرْفُوعَةُ: كِبْرَانٌ وَبِغْلٌ (جمع ہے اور اس کا واحد نہیں۔)

السَّرْفُوعَةُ: كِبْرَانٌ وَبِغْلٌ (جمع ہے اور اس کا واحد نہیں۔)

السَّرْفُوعَةُ: كِبْرَانٌ وَبِغْلٌ (جمع ہے اور اس کا واحد نہیں۔)

السَّرْفُوعَةُ: كِبْرَانٌ وَبِغْلٌ (جمع ہے اور اس کا واحد نہیں۔)

السَّرْفُوعَةُ: كِبْرَانٌ وَبِغْلٌ (جمع ہے اور اس کا واحد نہیں۔)

السَّرْفُوعَةُ: كِبْرَانٌ وَبِغْلٌ (جمع ہے اور اس کا واحد نہیں۔)

جس سے کوئی جماع نہ کر سکے۔

زَفَقَةٌ: (ن) زَفَقًا: نفع پہنچانا۔ مدد کرنا۔ کہنی پر مارنا..... النَّفَاقَةُ: اُدُنْحَى کے بازو کو باندھنا۔ العَمَلُ: مضبوطی سے کرنا۔

زَفَقٌ وَزَفَقٌ: (ن) وَكُورَفَقٌ: (س) وَرَفَقًا وَمَرْفَقًا وَمَرْفَقًا وَمَرْفَقًا. بہ وَاَلَهُ وَعَلَيْهِ: مہربانی کا برتاؤ کرنا۔

زَفَقِي: (س) زَفَقًا. البَعِيرُ: پہلو سے مڑی ہوئی کہنی والا ہونا۔ صفت (أَزْفَقِي)

زَفَقِي: (ک) زَفَقًا. الزَّجَلُ: ساٹھی ہونا۔

زَفَقَةُ: زَفَقٌ ہونا۔ ساٹھی ہونا۔ کہا جاتا ہے "زَفَقَةُ فِي السَّفَرِ" وہ سفر میں اس کے ساتھ رہا۔

أَزْفَقَةُ: مہربانی کا برتاؤ کرنا۔ نفع پہنچانا۔

تَوَزَّقِي: بہ: مہربانی کا برتاؤ کرنا۔

عَلَيْهِ: سہارا لینا۔

تَسَرَّفَقِي: الرِّجَالِ: ایک دوسرے کا ساٹھی ہونا۔

إِزْتَفَّقِي: کہنی یا کتلیہ پر ٹیک لگانا۔ مدد طلب کرنا۔

الإِنْسَاءُ: بھرجانا القَوْمُ: سفر میں باہم ساٹھی ہونا۔ بہ: نفع اٹھانا۔

إِسْتَرْفَقَةُ: مہربانی طلب کرنا۔ نفع رسائی طلب کرنا۔

تَمَرَّفَقِي: تکلیہ لینا۔

الرِّفْقِي: مِسْ- زَم بَرْتاؤ۔ مہربانی۔ ہر وہ چیز جس سے مدد لی جائے۔

الرِّفْقِي: مِسْ- زَم- آسان۔ کہا جاتا ہے "هَذَا أَمْرٌ زَفَقِي الْبَغِيَّةِ" یہ سہل الحصول معاملہ ہے۔ الرِّفْقِي: تخمین میں دودھ کی تالیوں میں خرابی۔ نَاقَةٌ (رِفْقَةٌ وَرَفْقَاءُ): اُدُنْحَى جس کے تھن کے اندر دودھ کی تالیوں میں خرابی ہو۔

الرِّفْقَةُ وَالرِّفْقَةُ وَالرِّفْقَةُ وَالرِّفْقَةُ: ساتھیوں کی جماعت۔ جِ رِفْقًا وَرِفْقًا: وَرَفَقٌ وَأَرْفَاقٌ۔

الرِّفْقَةُ: لطف و مہربانی۔ بہتر سلوک۔

الرِّفَاقُ: اُدُنْحَى کے بازو باندھنے کی رسی۔ جِ

زُفُقِي:

الرِّفْقِي: ساٹھی۔ مہربان۔ جِ رَفْقَاءُ۔

الْمِرْفَقِي وَالْمِرْفَقِي: کہنی۔ ہر وہ چیز جس سے سہارا لیا جائے۔ جِ مِرْفَاقِي۔

الْمِرْفَقِي: ہر وہ چیز جس سے نفع اٹھایا جائے اور اسی سے ہے "مِرْفَاقِي الدَّارِ": یعنی گھر کے منافع جیسے کنواں، باورچی خانہ، پاخانہ وغیرہ۔ و"مِرْفَاقِي البَلَادِ": شہر کے منافع جن سے سارے باشندے مستفید ہوں۔

الْمِرْفَقَةُ: چھوٹا کتلیہ جس پر سوتے ہوئے رخسار رکھتے ہیں۔

الْمِرْفَقِي الْمُرْتَفِقِي: تکلیہ لگانے کی جگہ۔

الْمِرْتَفِقِي: بھرا ہوا۔ ثابت۔

رَفَلٌ: (ن) رَفَلًا وَرَفُولًا وَرَفَلَاتًا: دامن گھسیٹتے ہوئے ناز سے چلنا۔ ہاتھ ہلاتے ہوئے چلنا۔ صفت مذکر (رَفَلِي)

صفت مؤنث (رَفَلَةٌ)

رَفَلٌ: (ن) رَفَلًا وَرَفَلٌ (س) رَفَلًا: بدنامی لباس پہننا۔ بے ڈھنگے طریقے سے کام کرنا۔

صفت مذکر (أَرْفَلٌ وَرَفَلٌ): صفت مؤنث

رَفَلَاءُ۔

أَرْفَلٌ: دامن گھسیٹنا۔ ناز سے چلنا۔

بِتَسَابُهِ: کپڑوں کو لٹکانا۔ کہا جاتا ہے "أَرْفَلٌ رَفَلُهُ" اس نے دامن لٹکایا۔

رَفَلُهُ: تعظیم کرنا۔ سردار بنانا۔ مالک بنانا۔

ذَلِيلٌ کرنا۔ الإِزَارُ: ازار لٹکانا اور ناز سے چلنا۔

تَوَزَّقِي: تکبیر کی وجہ سے ناز سے چلنا۔

تَوَزَّقِي: عَلَيهِ: رئیس سردار بننا۔

الرِّفَلُ: دامن۔

الرِّفَلُ: مِسْ- مِّن البَيْتِ: کتومیں کی تہ کا تھوڑا پانی۔

الرِّفَلُ: لمبے دامن والا۔ لمبی دم والا گھوڑا۔

بہت گوشت والا۔ کشاہہ کپڑا۔

عَيْشٌ رَفَلٌ: کشاہہ زندگی۔

الرِّفَالُ: مِّن الشَّعْرِ: لمبے بال۔

الْمِرْفَالُ: مِّن الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ: دامن

گھسیٹتے ہوئے ناز سے چلنے والا یا چلنے والی۔

الرِّفَانُ: آہستہ آہستہ قطرہوں والی بارش۔

رَفَةٌ (ف) رَفْفًا وَرَفْفًا وَرَفْفًا: خوش حال ہونا۔ صفت (زَوَافَةُ وَرَفْفَانُ)

رَفْفَتِ الْإِبِلُ: حسب مرضی روزانہ پانی پر آنا۔ صفت (زَوَافَةُ) جِ زَوَافِهِ۔

رَفَّةٌ: (ک) رَفَاها وَرَفَاهِيَةٌ وَرَفَاهَةٌ العَيْشُ: زندگی کا خوش گوارا آسودہ ہونا۔

صفت (زَوَافِهِ وَرَفِيهِ)

رَفَّةٌ وَأَرْفَةٌ. الرَّجُلُ: آسودہ و خوشحال بنانا۔

رَفَّةٌ غَنَّةٌ: مہلت دینا۔ بارغم ہلکا کرنا۔ کشاہگی کرنا۔

أَرْفَةٌ وَأَرْفَةٌ الرَّاعِي. الْإِبِلُ: حسب مرضی آنے دینا۔

أَرْفَتِ الْإِبِلُ: اُونٹ کا پانی کے قریب رہنا۔

أَرْفَةُ الْقَوْمِ: قوم کے مویشی کا حسب مرضی روزانہ پانی پر آنا۔

رَفِيهِ: غنہ، جنگی ورنج دور کیا جانا۔

أَرْفَهُ وَتَوَزَّقَهُ: آرام لینا۔

الرِّفْفَةُ: مِسْ- چھوٹے چھوٹے کھجور کے درخت۔

الرِّفْفَةُ: رحمت و مہربانی۔

هُوَ (زَوَافِهِ) بہ: وہ اس پر مہربان ہے۔

الرِّفْفِيَّةُ: فراخی، عیش ارزانی۔

الرِّفْفَةُ: خشک گھاس اور اسی سے شل ہے "أَغْنَى مِنَ النَّفْعِ عَنِ الرِّفْفَةِ"۔

رَفَا: (ن) رَفْوًا. النَّوْبُ: کپڑے پر رفو کرنا۔ درست کرنا۔ صفت (زَوَافِي) جِ رَفَاةٌ اور صفت معنوی (مَرْفُوقٌ)..... ۵: ڈر دور کرنا۔

فَاعِدٌ دور کرنا۔

رَفِي تَوَزَّقِي. الرَّئِيسُ: شادی شدہ کو دعوت دینا اور "بالرَفَاءِ وَالْبَيْتِ" کہنا۔

رَافِي رَفَاءً وَمَرِافًا. الرَّجُلُ: موافقت کرنا۔

أَرْفِي. إِلَيْهِ: پناہ لینا۔

تَرَافِي. الْقَوْمِ عَلَى الْأَمْرِ: باہم موافقت ہونا۔

الرِّفَاءُ: اتفاق و موافقت۔

الْأَرْفِيُّ: ڈھیلے پن کے ساتھ لمبے کانون

ذُرَابًا..... النَّجْم: ستاروں کی دیکھ بھال کرنا
..... ہنگے میں رسی ڈالنا۔

زَأْبِقَهُ: تمہیں ہانی کرنا۔ رَأْبِقَ السُّلَّةُ فِي أَمْرِهِ:
خوف کرنا۔

أَزْبَقَهُ: الذَّارِ: بشرط زَقْبِي: زندگی بھر کے
لئے دینا (دیکھو لفظ زَقْبِي) ازْبَقَهُ الرُّقْبِي:
کسی کے لئے زَقْبِي: کرنا (دیکھو لفظ زَقْبِي)
نَزْبِقَهُ وَأَزْبَقَهُ: انتظار کرنا۔ اِنْتَزَبَ
السَّمَانَ: چڑھنا۔

تَزَابِقًا: ایک دوسرے کی تمہیلی کرنا۔

الرُّقْب: گردن کی موٹائی۔

الرُّقْبِي: کسی کو مکان وغیرہ اس شرط پر دینا
کہ اگر میں تم سے پہلے مر جاؤں تو یہ مکان
تمہارے لئے ہے اور تم مر گئے تو پھر میں
واپس لے لوں گا۔

الرُّقْبِيَّة: احتیاط۔ بچاؤ۔ تمہیلی۔ خوف۔
ذُر: گھبراہٹ۔ کہا جاتا ہے "وَرِثَ مَا لَا عِن
رَقْبِيَّة" جبکہ مال آباد و اجداد سے حاصل نہ کیا
ہو۔ ایسے ہی کہا جاتا ہے "وَرِثَ مَجْدًا عِن
رَقْبِيَّة" جبکہ آباد اجداد صاحبِ مجد نہ ہوں۔

الرُّقْبِيَّة: گردن یا پس گردن۔ ج رَقَاب
وَرَقَابَاتٍ وَرَقَبٍ وَأَرْقَابٍ. الرُّقْبِيَّة: بملوک
غلام (مجازاً) کہا جاتا ہے "هُمُ غِلَاطُ
الرُّقَاب" وہ سخت اور سرکش لوگ ہیں۔

الرُّقْبِيَّة: چیتے کے شکار کے لئے گڑھا جیسے
زیب شیر کے لئے۔

الأَرْقَاب: مؤنث رَقَبَاء. (و الرُّقْبَان
و الرُّقْبَانِي): مؤنث گردن والا۔ الأَرْقَاب:
شیر۔

الرُّقُوب: میراث کے لئے اپنے شوہر کی
موت کا انتظار کرنے والی عورت۔ وہ عورت
جس کا بچہ مر گیا ہو یا وہ جس کا بچہ زندہ نہ رہتا

ہو۔ الرُّقُوبُ مِنَ الشُّيُوخِ وَالْأَرْبَابِ: وہ
لوگ جن کی کوئی کمانی نہ ہو اور نہ وہ کمانی
کرنے کی طاقت رکھتے ہوں۔ اُمُّ الرُّقُوبِ
: مصیبت۔

الرُّقْبِي ج رَقَبَاء: تمہیلان۔ محافظ۔ منتظر ہیں

الرُّقْبِيَّة: زندگی کی آسودگی۔ رِقَّةُ السَّجَابِ:
ضعف و کمزوری سے کنایہ ہے۔

الرُّقْبَان: بیابان۔ ہموار نرم زمین یا وہ زمین
جس پر سے پانی خشک ہو چکا ہو۔

الرُّقْبَان: پتلا۔ پتلی روٹی۔ واحد (الرُّقْبَان):
نرم مٹی والی کشادہ زمین یا وہ زمین جس پر
سے پانی خشک ہو چکا ہو۔

الرُّقْبَانِي: پتلا۔ ج اَرْقَاءُ مؤنث رَقْبِيَّة ج
رَقَاب: کہا جاتا ہے "هُوَ رَقْبِيٌّ الْمَعْنَى" وہ
لطیف معانی والا ہے۔ و "عَيْشٌ رَقْبِيٌّ
السُّخَايِسِي" یعنی خوش حالی اور آسودگی والی

زندگی۔ و "رَجُلٌ رَقْبِيٌّ الْحَالِ" کم مال والا
مرد۔ و "لَفْظٌ رَقْبِيٌّ": یعنی آسان و خوشگوار
لفظ۔ الرُّقْبَانِي: غلام۔ (واحد و جمع دونوں کے
لئے) کہا جاتا ہے۔ عَيْدٌ رَقْبِيٌّ وَعَيْبَةٌ رَقْبِيٌّ
اور بھی اَرْقَاءُ جمع ہوتے ہیں اور باندی کے
لئے رَقْبِيَّة اور رَقْبِيَّة: دونوں کا استعمال

ہے۔ رَقْبِيَّةُ الْاَنْفِ: ناک کا نرم حصہ۔
الرُّقْبَانِي: ناک کے نتھنوں کے کنارے۔
مَرَاقِي: البطن: پیٹ کا نرم و پتلا حصہ۔
الرُّقْبَانِي: چوڑی پتلی روٹی۔

الرُّقْبَانِي: بیلن۔
الرُّقْبَانِي: چیز کا نرم حصہ۔
رَقَاب: (ف) رَقَابٌ وَرُقُوءٌ. ا. الذَّمْعُ أَوِ الدَّمْعُ:
آنسو یا خون کا خشک ہونا۔ منقطع ہونا۔ رَقَابٌ
بَيْنَهُمْ: صلح کرنا۔ فساد ڈالنا..... فِي الدَّرَجَةِ
: چڑھنا۔ کہا جاتا ہے "إِرْقَابًا عَلَيَّ ضَلْبِيكَ"
إِرْقَابًا عَلَيَّ ضَلْبِيكَ: میں ایک لغت ہے۔
یعنی اپنے اوپر نرمی کرو اور استطاعت سے

زیادہ بوجھ مت لا دو۔
إِرْقَابًا الدَّمْعُ أَوِ الدَّمْعُ: خشک کرنا۔
الرُّقْبَانِي: خون بند کرنے والی چیز۔ قوم کے
درمیان صلح کرانے والا۔
الرُّقْبَانِي: سیرگی۔ زینہ۔
الرُّقْبَانِي: فساد۔

رَقْبِيَّة: (ن) رُقُوبًا وَرُقُوبًا وَرَقَابَةً وَرَقْبَانًا
وَرَقْبَةً وَرَقْبَةً: تمہیلی کرنا، انتظار کرنا

والا۔ مؤنث رُقُوءٌ ج رُقُوءٌ.
الأَرْقَابِي: بہن کا دودھ یا مطلقاً دودھ۔
رَقْبِي: (ض) رَقْبِيَّة: پتلا ہونا..... لَبَنٌ: رحم کرنا
..... وَجْهَةٌ: شرم کرنا..... الرُّقْبَانِي: برے
حال والا اور کم مال والا ہونا۔ کہا جاتا ہے
"رَقْبَتُ عِظَامُهُ" یعنی بوڑھا ہو گیا۔
رَقْبِي: (ض) رَقْبَانِي: غلام بنانا یا غلام
رہنا۔
رَقْبِيَّة: پتلا کرنا۔ رَقْبِي اللَّفْظُ: نرمی سے پڑھنا
..... الْكَلَامُ: خوبصورتی سے گفتگو کرنا۔
..... مَشِيَّةٌ: آہستہ چلنا..... مَا يَمُنُّ الْقَوْمُ:
فساد ڈالنا۔
أَرْقِي الشَّيْءُ: پتلا کرنا..... السُّوَاعُظُ قَلْبِهِ:
دل کو نرم کرنا..... الرُّقْبَانِي: کم مال والا ہونا۔
..... الْجَنْبُ: انگوڑ کا پتلے چمکے اور زیادہ شیرہ
والا ہونا۔ الْعَيْدَةُ: غلام کا مالک ہونا۔
تَرْقُقُ الشَّيْءُ: پتلا ہونا..... لَبَنٌ: رحم کھانا۔
تَرْسُ كَهَاتَا۔
إِسْتَرَقَى الشَّيْءُ: پتلا ہونا..... الْعَيْدَةُ: غلام کا
مالک ہونا..... اللَّيْلُ: رات کا اکثر حصہ گزر
جانا..... الْمَاءُ: پایاب ہو جانا۔
الرُّقْبِي: بھس۔ غلامی۔ پتلی چیز۔ پتلی کھال۔
جس پر لکھا جائے۔ سفید کاغذ کا تختہ۔ درخت
کے پتے یا جانوروں کے لئے آسانی سے
حاصل ہونے والی ٹہنیاں۔
الرُّقْبِي: لکھنے کے لئے پتلی کھال۔ سفید کاغذ کا
تختہ۔ پتلا۔ مگر چمچ کے مشابہ ایک آبی
جانور۔ بڑا یا نرم کچھو۔ ج رُقُوقُ.
الرُّقْبِي وَرُقْبِي وَرَقْبَانِي: نرم و کشادہ زمین۔
الرُّقْبِي: سمندر یا ادوی کا پتلا پانی۔
الرُّقْبَانِي: کمزوری۔ بارگی۔ کھانے کا پتلا
پن۔
الرُّقْبِيَّة: زمین جو پانی سے بھر جائے اور پھر
خشک ہو جائے۔ ج رَقَاب. الرُّقْبِيَّة: ایک شہر کا
نام۔ الرُّقْبَانِي: دو شہر ہیں جن کے نام رَقْبِيَّة
وَرَقْبِيَّة ہیں اور یہ باب تغلیب سے ہے۔
الرُّقْبِيَّة: رحمت۔ مہربانی۔ شرم۔ بارگی۔ رِقْبِيَّة

ماندگان۔ چچا زاد بھائی جوئے کے تیروں میں سے تیرا تیر۔ ایک ستارہ کا نام۔ رَقِيبُ العَجِش: دید بان۔ ج رَقِب و رَقِيبَات: ایک جھبٹ قسم کا زہریلا سانپ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ رَقِيبٌ نَفْسِهِ" وہ اپنے اعمال کا خود ہی نقاد ہے۔ کسی کو کچھ کہنے کا موقع نہیں دیتا۔ نیز "الرَّقِيبُ" اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے۔

الرَّقَابَةُ: مالک کی غیبت میں مال کی گمرانی کرنے والا خادم۔

المَرَقِبُ والمَرَقِبَةُ: گمرانی کرنے کی اونچی جگہ۔ ج مَرَقِب۔

المِرْقَبُ: دور بین۔

رَقِيعٌ: مائلہ بہتر انتظام کرنا۔

تَرَقِيعٌ لِعَمَالِهِ: کمائی کرنا۔

إِرْتَقِيعٌ: زیادہ ہونا۔

الرَّقِيسَةُ: کمائی تجارت۔ کہا جاتا ہے "هُوَ (رَأْفِعَةُ) أَهْلِيهِ" وہ اپنے اہل و عیال کے لئے کمائی کرنے والا ہے۔

الرِّقَاجِيُّ: سوداگر۔

رَقَدَ: (ن) رَقَدًا وِرْقُودًا وِرْقَادًا: سونا صفت (راقد) ج رُقُود وِرْقُد. السُّوقُ: بازار کا مندا پڑنا۔ السُّحْرُ: گرمی کم ہونا۔

عَسَنَ الْأَنْسَرُ: کام سے غافل ہونا۔ عَسَنَ ضَنْبِهِ: مہمان کی خبر گیری نہ کرنا۔ القُوبُ: پراتا ہونا۔

أَرَقَدَ: سلاٹا۔ أَرَقَدَ بِالسَّكَّانِ: اقامت کرنا۔

تَرَاقَدَ: سوتا ہونا ظاہر کرنا۔ القَوْمُ عَلَى فَلَانٍ: قوم کا کسی کے خلاف مدد دینا۔

إِرْقَادًا: اِرْقَادًا: جلدی کرنا۔

إِسْتَرَقَدَ: نیند کا غالب ہونا۔

الرَّقْدَةُ: نیند۔ کہا جاتا ہے "أَصَابَتْنَا رَقْدَةٌ مِنْ السُّحْرِ" یعنی ہمارے اوپر دس دن کے برابر گرمی پڑی۔

الرَّقْدَةُ والرَّقُودُ: بہت سونے والا۔

الرَّقُودُ: ہمیشہ سونے والا۔ کہا جاتا ہے

"إِمْرَأَةٌ رَقُودٌ الضُّحَى" چاشت تک سونے والی۔ یعنی آسودہ حال عورت۔

الرَّقْدَانُ: بکری کے بچے وغیرہ کی اچھل کود۔

الرِّقَادُ: بڑا منکا۔ ج رَوَاقِدُ: ایک قسم کی چھوٹی پھلی۔ ایک قسم کا پیمانہ۔

التَّرْقِيدُ: ایک قسم کی چال۔ تَرْقِيدُ الْبَيْضِ: بچے نکالنے کے لئے مرغی کے نیچے انڈے رکھنا۔

المُرْقَدُ: خواب گاہ۔ ج مَرَقِد. المُرْقَدُ: خواب آور دوا۔ واضح راستہ۔

رَقُوقُ الْمَاءِ: چھڑ کرنا۔ العَيْنُ: آنسو بہانا۔ الخُمْزُ: پانی ملانا۔ السُّطْبُ فِي الْقُوبِ: خوشبو لگانا۔

تَرَفَّرِقُ الْمَاءَ: آہستہ آہستہ بہنا۔ چمکانا۔ آنا جانا۔ العَيْنُ: آنسو بہانا۔ الذَّمْعُ: آنسو کا آنکھ میں چکر کھانا۔ الشَّمْسُ: آفتاب کا گھومتا ہوا معلوم ہونا۔

الرَّفْرَاقُ: وہ جو چمکے۔ آئے جائے۔ مِنَ الذَّمْعِ: آنسو جو آنکھوں ہی میں پھر رہا ہو۔

مِنَ السُّحَابِ: آنے جانے والا۔ بادل۔

الرِّقَارِقُ: سمندر یا وادی کا رقیق پانی۔ باریک کپڑا۔ بہت آبدار تلواریں۔

رَقَزَ: (ن) رَقَزًا: ناچنا۔ العِرْقُ: اچھلنا۔

الرَّقَازُ: ناچنے والا۔

رَقَشَهُ: (ن) رَقَشًا: نقش کرنا۔ الكَلَامُ: لکھنا۔ سجانا۔

رَقَشَ الْكَلَامَ: لکھنا۔ سجانا۔ گھڑنا۔ الصَّحِيفَةُ: سطر میں کرنا۔ الرَّجُلُ: عتاب کرنا۔ الرَّجُلُ: چمچل خوری کرنا۔

تَرَقَّشَ: مزین ہونا۔

أَرْتَقَشَ: حسن زینت ظاہر کرنا۔ العَجِشُ: لڑائی میں گتہ جانا۔

الأَرْقَشُ: سفید و سیاہ پتیوں والا۔ مَوْنَتُ رَقَشَاءُ.

الرَّقَشُ والرَّقَشَةُ: ایک قسم کا رنگ جس میں

نیلا لہلہ اور سیاہی ہو۔

الرَّقَشَاءُ: مِنَ الْحَيَاتِ: چیتی دار سانپ۔ ایک قسم کا کیڑا۔ اُونْتُكَ: مستی کے وقت کے جھاگ۔

رَقَصَ: (ن) رَقَصًا: ناچنا۔ اضْطْرَابُ كَرْنًا: النَبِيدُ: جوش مارنا۔ فِى الْكَلَامِ: جلدی جلدی بولنا۔ رَقَصًا وِرْقَصًا وِرْقَصَانًا: الجَمَلُ: اُونْتُكَ کا دوڑنا۔

رَقَصَهُ وِرْقَصَهُ: ناچانا۔ کہا جاتا ہے "إِرْقَصَ الْقَوْمُ لِبَنِي سَيْبِهِمْ" جبکہ وہ اپنی چال میں کبھی بلند ہوں اور کبھی پست۔

إِرْتَقَصَ: السُّعْرُ: بھاؤ گراں ہونا۔ تَسَرَّقَصَ: السُّعْرُ: جلدی جلدی پست و بلند ہونا۔

السَّرْقَاصُ: وہ پتلی جو کہ لٹکانی جائے اور دھاگہ کے ذریعے ناپے۔ ہر جسم جو کہ اپنے محور کے ارد گرد اپنے بوجھ کی وجہ سے گھومے۔

الرَّقَاصُ: بہت ناچنے والا اور اسی سے ہے رَقَاصُ السَّاعَةِ: (گھڑی کا پنڈولم)

الرَّقَاصَةُ: رقاص کا مَوْنَت۔ عربوں کے ایک تھیل کا نام۔ باوجود بارش کے پیداوار نہ اُگانے والی زمین۔

شِعْرُ (مُرْقَصٍ): وجد میں لانے والا شعر۔

فَلَاةٌ (مُرْقِصَةٌ): بیابان میں جو چلنے والے کو دوڑنے پر ابھارے۔

رَقَطَ (س) رَقَطًا: سیاہ پرفسید نقطے یا سفید پرسیاہ داغ والا ہونا۔

رَقَطَ عَلَى الْقُوبِ: روشنائی وغیرہ چھڑک کر داغ ڈالنا۔

تَسَرَّقَطَ: اِرْقَطًا وِرْقَطًا وِرْقَطًا وِرْقَطًا وِرْقَطًا: سیاہ یا سفید داغ والا ہونا۔ صفت (أَرَقَطُ): مَوْنَتُ رَقَطَاءُ ج رَقَطُ الْأَرَقَطُ: چیتا۔

الرَّقِطَةُ: سیاہ پرفسید یا سفید پرسیاہ داغ۔

الرَّقِطَاءُ: تندر و نساد۔

الرَّقِطَاءُ: زرباشی پودا۔

الرَّقِطَاءُ: زرباشی پودا۔

الرَّقِطَاءُ: زرباشی پودا۔

الرَّقِطَاءُ: زرباشی پودا۔

رَفَعُ: (ف) رَفَعًا. التَّوْبُ: کپڑے پر پیوند لگانا..... الغرضِ بَسْمَهَجِه: نشانہ پر مارنا..... ذَنْبَهُ بِالسُّوْطِ: دم پر کوڑے سے مارنا..... فِي السِّيْرِ: تیز چلنا..... الرَّجُلُ: جو کرنا..... الشَّيْخُ: اٹھنے کے لئے پھیلیوں کا ٹیک لگانا۔

رَفَعُ: (ک) رَفَاعَةً: بے وقوف و بے حیا ہونا۔ صفت (رَفِيعٌ وَأَرْقِعُ وَمَرْفَعَانُ).

رَفَعُ تَرْفِيعًا. التَّوْبُ: کپڑے پر پیوند لگانا اور اس سے ہے "رَفَعُ ذَنْبَاهُ بِأَجْرَتِهِ": اس نے اپنی دنیا کی اصلاح آخرت سے کی۔ "هُوَ صَاحِبُ تَرْفِيعٍ وَتَوْصِيلٍ": اس شخص کے حق میں بولتے ہیں جو اپنی باتوں میں نمک مریج لگایا کرتا ہو۔

رَافِعُ. الخَمْرُ: ہمیشہ شراب پینا۔

أَرْفَعُ. التَّوْبُ: کپڑے کا پیوند کے قابل ہونا..... الرَّجُلُ: حماقت کا کام کرنا۔

تَرْفَعُ. البِلَادُ: شہروں میں ارزانی و فراخی میں کمی کرنا۔ کہا جاتا ہے "مَسَا (أَرْتَفَعُ) بِهِ وَكَلَهُ" یعنی اس نے اس کی پروا نہیں کی۔

أَسْتَرْفَعُ. التَّوْبُ: قابلِ مرمت ہونا۔ الرَّفْعُ: بصر۔ متقدمین کے نزدیک ساتواں آسمان۔

الرَّفْعَةُ: نشانہ میں تیر کی آواز۔

الرَّفْعَةُ: تحریر کا پرزہ۔ کپڑے کا پیوند۔ رَفْعَةُ الشَّطْرُوتِج: شطرنج کا تخت۔ رَفْعَةُ الْفَرَضِ: جس پر نشانہ لگایا جائے۔ "رَفْعَةُ الْأَرْضِ: زمین کا ایک ٹکڑا۔ رَفْعَةُ الشَّيْءِ: چیز کا اصل و جوہر۔ رَفَعُ وَرَفَاعٌ: کہا جاتا ہے "فِي هَذَا الْجَمَلِ رَفْعَةٌ مِنَ الْجَرَبِ" اس اُونٹ میں خارش کی ابتداء ہے۔

الرَّفْعَاءُ. أَرْفَعُ: کامونٹ۔ بَسْمَرَةُ رَفْعَاءُ: مختلف رنگوں والی گائے۔

الرَّفِيعُ: آسان یا قدماء کی اصطلاح میں پہلا آسمان۔ رَفِيعَةٌ:

جَوُوعٌ (بِرَفُوعٍ): سخت بھوک۔

الرَّفِيعُ: کپڑے میں پیوند کی جگہ اور کہا جاتا

ہے "لَا أَرَى فِيهِ مَرْفَعًا" میں اس کے اندر کوئی موقع گالی یا جو کا یا کوئی موقع اصلاح کا نہیں دیکھتا ہوں۔

أَرْقَلُ: دوڑنا۔ پوہ چلنا..... الْمَفَاذَةُ: بیابان کو طے کرنا۔ أَرْقَلْتُ النَّخْلَةَ: درخت خرما کا لمبا ہونا۔

الرَّفْلَةُ: کھجور کا لمبا درخت۔ رَفْلٌ وَرَفْلٌ. السَّرَاقِلُ: کھجور کے درخت پر چڑھنے کی رسی۔ پاسی۔

الْمِرْقَالُ وَالْمُرْقِلُ وَالْمُرْقَلَةُ. مِنَ الْأَهْلِ: تیز رفتار اُونٹ۔ رَفْعُ مَرَايِلٍ وَمَرَايِلٌ وَمُرْقِلَاتٌ.

رَقَمٌ: (ن) رَقْمًا وَرَقَمٌ: لکھنا..... الْكِتَابُ: اعراب و نقطے لگانا۔ رَقَمَ التَّوْبُ: کپڑے کو دھاری دار بنانا..... التَّبَعِيرُ: اُونٹ پر داغ لگانا..... النَّخْبُورُ: روئی پر نقش ڈالنا اور "فَلَانٌ يَرْقُمُ عَلَيَّ الْمَاءَ" اس شخص کے حق میں بولتے ہیں جو کاموں میں حاذق و ماہر ہو۔

الرَّقَمُ: بصر۔ دھاری دار نقش یا دھاری دار چادر کی ایک قسم۔ مہرج ازرقام و روقوم الارقام الهندية: ہند سے۔

الرَّقَمُ الرَّقْمُ وَبُنْتُ الرَّقْمِ: مصیبت۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ بِالرَّقْمِ أَوْ بِالرَّقْمِ" یعنی وہ بہت مصیبت لایا۔ "جَاءَ بِالرَّقْمِ الرَّقْمَاءُ" وہ بہت بڑی مصیبت لایا۔

الرَّقْمَةُ: باغ وادی کا پہلو۔ وادی میں پانی جمع ہونے کی جگہ۔ حجازی: کہا جاتا ہے "مَا وَجَدْتُ فِي الْأَرْضِ الرَّقْمَةَ مِنَ كَلَاءٍ": میں نے زمین میں صرف تھوڑی سی گھاس پائی۔

الرَّقْمَةُ: ایک قسم کی نباتات۔

الرَّقِيمُ: کتاب۔ لکھا ہوا۔

الْأَرْقَمُ: ایک خبیث قسم کا سانپ۔ جتنی دار سانپ۔ رَفْعُ أَرْقَمٍ: اس کی مادہ کو رقصاء: نہیں رقصاء: کہتے ہیں۔ الارقم: قلم۔

الرَّقْمُ وَالرَّقْمَةُ: جتنی دار سانپ کا رنگ۔ السَّرَقَمُ: قلم۔ نقش کرنے کا آلہ۔ داغ

لگانے کا آلہ۔ رَفْعُ مَرَايِمٍ.

الرَّفْعُ مَرْفُومٌ: مفتح۔ كِتَابٌ مَرْفُومٌ: واضح لکھی ہوئی کتاب۔ تَوَزُّرٌ مَرْفُومٌ الْقَوَائِمُ: ناغموں میں سیاہ دھاری یا داغوں والا تیل۔ أَرْضٌ مَرْفُومَةٌ: تھوڑی گھاس والی زمین۔

رَقْنَتٌ: (ن) رَقْنَسًا. الْحَايِرَةُ: لڑکی کا مہندی لگانا۔

رَقْنَةُ: نقش و نگار کرنا۔ لکھنا۔ رَقْنُ الْكِتَابِ: مزین کرنا۔ سجانا۔ قریب قریب سطرین لکھنا۔

..... النَّحْطُ: نقطے لگانا..... وَأَرْقَنُ لِحْيَتَهُ: داڑھی پر خضاب لگانا۔

أَرْقَنُ وَتَرْقَنُ إِزْتَقَنُ وَاسْتَرْقَنُ: خضاب لگایا ہوا ہونا۔

الرَّقِينُ وَالْمَرْفُونُ: لکھا ہوا۔

السَّرْقَانُ وَالرَّقُونُ وَالْإِرْقَانُ: مہندی یا زعفران۔

الرَّقِنُ: مردار خوار پرندے کا انڈا۔

الرَّقْوُ وَالرَّقْوَةُ: گول و بلند ریت کا ٹیلہ۔

رَقِي: (س) رَقِيًا وَرَقِيًا. الْجَبَلُ وَفِيهِ وَالْيَهُ: پہاڑ پر چڑھنا۔ کہا جاتا ہے "أَزِقْ عَلَيَّ ظَلْعُكَ" یعنی اپنی طاقت کے مطابق چڑھو اور اپنے نفس پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔

رَقِي: (ض) رَقِيًا وَرَقِيًا وَرَقِيَةً. هُ وَعَلَيْهِ: نفع یا نقصان کے لئے متر کرنا۔

رَقَاهُ تَرْقِيَةً: بلند کرنا۔ چڑھانا۔

إِرْقَى إِزْتَقَاءً وَتَرْقَى تَرْقِيًا. الْجَبَلُ وَفِيهِ وَالْيَهُ: پہاڑ پر چڑھنا..... فِي السَّلْمِ: سیرگی کے ڈنڈوں پر چڑھنا..... بِمِ الْأَمْرِ: انتہا کو پہنچنا۔ کہا جاتا ہے "مَا زَالَ فُلَانٌ يَتَرْقَى بِهِ الْأَمْرَ حَتَّى بَلَغَ غَايَتَهُ" فلاں کے لئے

معاملہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ انتہا کو پہنچ گیا۔ وَتَرْقَى الرَّجُلُ: ہنسی کی ہڈی پر مارنا۔

تَرَقَّى: أَمْرُهُمْ إِلَى الْفَسَادِ: معاملہ میں لگاتار فساد کا ہونا۔

إِسْتَرْقَاهُ: منتر کرنے کو کہنا..... لُئُ: کسی کے لئے منتر کرنے والے کو طلب کرنا۔

السُّرْقِيَّةُ: منتر۔ افسوس۔ تعویذ۔ جِ رُقِي سِي وَرُقِيَّاتٍ وَرُقِيَّاتٍ.

السَّرَاقِي: فَا- منتر کرنے والا۔ جِ رُقِيَّةٌ وَرُقِيَّاتٌ: مَوْنَتٌ رَاقِيَةٌ جِ رَوَاقِيٍّ اور کہا جاتا ہے "زَجَلٌ رَاقِيَةٌ" مثل زَجَلٌ رَاقِيَةٌ: کے۔ تا مبالغہ کے لئے ہے تا بیس کی نہیں۔

السَّرْقَاءُ: ماہر منتر کرنے والا۔ پہاڑوں پر بہت چڑھنے والا۔

المُرْتَقِي: چڑھنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "لَقَدْ إِزْتَفَيْتُ مُرْتَقِيَّ صُغْبًا" میں دشوار مقام پر چڑھا۔

الْمُرْقُوَّةُ: ہنسی کی ہڈی۔ جِ تَرَفَقِي.

الْمُرْقِي وَالمُرْقَاةُ وَالمُرْقَاةُ: میزگی کا پایہ۔ جِ مَرَقَاقٍ.

رُكْبٌ: (ض) رُكْبًا وَرُكْبَةً وَرُكْبَاكَةٌ: ضعیف و کمزور ہونا۔ اسی قول سے ہے

"أَقْطَعَهُ مِنْ خَيْثُ رُكْبٌ" اس کو جہاں سے کمزور ہے کاٹ دو..... السَّرْجَلُ: کم علم یا کم عقل ہونا۔

رُكْبٌ: (ن) رُكْبًا. الشَّيْءُ: بعض کو بعض پر جمانا۔ کہا جاتا ہے "رُكْبٌ الْأَمْرَ لِي عُنُقِهِ"

اس نے کام اپنے ذمہ لازم کیا..... الشَّيْءُ بَيِّنَةٌ: ہاتھ سے دبا کر موٹائی معلوم کرنا۔

رُكْبٌ وَرُكْبٌ: السَّحَابُ: ہلکی بارش برسا۔

أَرَكٌ النَّحْقُ فُلَاتًا: غالب ہونا۔ أَرَكْتُ وَرُكْبْتُ الْأَرْضُ: ہلکی بارش برسا۔

إِرْتَكَبْتُ: مضطرب ہونا۔ ہلنا۔ فِی الْأَمْرِ: شک کرنا۔

إِسْتَرْقَاكَةً: کمزور سمجھنا کمزور پانا..... السَّرْكُ وَالرُّكْبُ: جِ رُكْبَاكٌ وَرُكْبَاكٌ

وَالسَّرْكَةُ وَالسَّرْكِيكَةُ: ہلکی بارش۔ أَرْضٌ رُكْبٌ: ہلکی بارش والی زمین۔ الرُّكْبُ: لاغر۔

السَّرْكَاكُ وَالأَرَكُ: کمزور عقل۔ کمزور

رأى۔

السَّرْكِيكُ: جِ رُكْبَاكٌ وَرُكْبَاكَةٌ: کمزور عقل یا کمزور رائے۔ ڈھیلا ڈھیلا کم بہت۔

السَّرْكِيكُ مِنَ الْكَلَامِ: پچیس پچیس گفتگو۔ زَجَلٌ زَجْلِيكٌ الْعِلْمِ: کم علم مرد۔ نَوْبٌ زَجْلِيكٌ النَّسْجِ: چھدر بنا ہوا کپڑا۔

السَّرْكَاكَةُ: کمزور عقل۔ کہا جاتا ہے "زَجَلٌ زُكَاكَةٌ وَإِمْرَأَةٌ زُكَاكَةٌ" جِ رُكْبَاكٌ. الرُّكْبُوْكَةُ: کمزوری۔

رُكْبٌ: (س) رُكْبًا وَرُكْبَةً: المَذَابَةُ وَعَلَى الْمَذَابَةِ: چڑھنا۔ سوار ہونا..... التَّحْرُ: دریائی سفر کرنا..... الطَّرِيقُ: راستہ پر چلنا۔

أَلْسَرَهُ: پیچھا کرنا..... هَوَاهُ: مطبخ خواہشات ہونا..... رَأْسُهُ: بغیر سوچے سمجھے کسی کام کو کر گزرتا..... الذَّنْبُ: ارتکاب کرنا

..... السَّخْطَرُ: اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا۔

رُكْبَةُ الدَّيْنِ: مقروض ہونا۔ رُكْبٌ: (س) رُكْبًا: بڑے زانو والا ہونا۔

رُكْبَةٌ: (ن) رُكْبًا: زانو پر مارنا۔ رُكْبٌ: زانو میں درد والا ہونا۔

رُكْبٌ: الشَّيْءُ: ترکیب دینا۔ بعض کو بعض پر رکھنا..... هَ الْفَرَسُ: سوار کرنا۔

أَرُكْبَةٌ: سواری دینا..... الصَّهْرُ: سواری کے قابل ہونا۔

تَرُكْبٌ: ترکیب پانا۔

إِرْتَكَبْتُ: سوار ہونا..... الذَّنْبُ: گناہ کر بیٹھنا..... الْأَمْرُ: دلیری سے گھس پڑنا۔

..... الدَّيْنُ: قرض زیادہ لینا۔ تَرَاكَبْتُ: الأمرُ: تہمت ہونا۔

الرُّكْبُ: اُونٹ یا گھوڑوں کے سوار۔ یہ اسم جمع ہے اور بقول بعض جمع۔ جِ أَرُكْبٌ وَرُكْبُوبٌ.

الرُّكْبَةُ: "رُكْبُ الْمَذَابَةِ" کا اسم۔ سوار ہونے کی ایک قسم۔ کہا جاتا ہے "هُوَ حَسَنُ السَّرْكِيكَةِ" وہ اچھی طرح سوار ہونے والا

ہے۔

الرُّكْبَةُ: زانو۔ گھٹنا۔ جِ رُكْبٌ وَرُكْبَاتٌ وَرُكْبَاتٌ: کہا جاتا ہے "هَذَا أَمْرٌ اصْطَلَحْتُ فِيهِ الرُّكْبُ" یہ ایسا معاملہ ہے جس میں گھٹنے ایک دوسرے سے رگڑ کھاتے ہیں۔ رُكْبَةُ الْمَذَابَةِ وَرُكْبَةُ الرِّمِيِّ: دو ستاروں کے نام۔

السَّرْكَابُ: زمین کا وہ لٹکا ہوا حصہ جس میں سوار پانا بیڑا ہے۔ جِ رُكْبٌ. الرُّكْبَابُ: سواری کے لئے اُونٹ اس کا واحد

رُكْبَةٌ: ہے۔ جِ رُكْبٌ وَرُكْبَاتٌ وَرُكْبَاتٌ: سواری کے لئے اُونٹ اس کا واحد

رُكْبَةٌ: ہے۔ جِ رُكْبٌ وَرُكْبَاتٌ: سواری کے لئے اُونٹ اس کا واحد

رُكْبَةٌ: ہے۔ جِ رُكْبٌ وَرُكْبَاتٌ: سواری کے لئے اُونٹ اس کا واحد

رُكْبَةٌ: ہے۔ جِ رُكْبٌ وَرُكْبَاتٌ: سواری کے لئے اُونٹ اس کا واحد

رُكْبَةٌ: ہے۔ جِ رُكْبٌ وَرُكْبَاتٌ: سواری کے لئے اُونٹ اس کا واحد

رُكْبَةٌ: ہے۔ جِ رُكْبٌ وَرُكْبَاتٌ: سواری کے لئے اُونٹ اس کا واحد

رُكْبَةٌ: ہے۔ جِ رُكْبٌ وَرُكْبَاتٌ: سواری کے لئے اُونٹ اس کا واحد

رُكْبَةٌ: ہے۔ جِ رُكْبٌ وَرُكْبَاتٌ: سواری کے لئے اُونٹ اس کا واحد

رُكْبَةٌ: ہے۔ جِ رُكْبٌ وَرُكْبَاتٌ: سواری کے لئے اُونٹ اس کا واحد

رُكْبَةٌ: ہے۔ جِ رُكْبٌ وَرُكْبَاتٌ: سواری کے لئے اُونٹ اس کا واحد

رُكْبَةٌ: ہے۔ جِ رُكْبٌ وَرُكْبَاتٌ: سواری کے لئے اُونٹ اس کا واحد

رُكْبَةٌ: ہے۔ جِ رُكْبٌ وَرُكْبَاتٌ: سواری کے لئے اُونٹ اس کا واحد

رُكْبَةٌ: ہے۔ جِ رُكْبٌ وَرُكْبَاتٌ: سواری کے لئے اُونٹ اس کا واحد

رُكْبَةٌ: ہے۔ جِ رُكْبٌ وَرُكْبَاتٌ: سواری کے لئے اُونٹ اس کا واحد

رُكْبَةٌ: ہے۔ جِ رُكْبٌ وَرُكْبَاتٌ: سواری کے لئے اُونٹ اس کا واحد

رُكْبَةٌ: ہے۔ جِ رُكْبٌ وَرُكْبَاتٌ: سواری کے لئے اُونٹ اس کا واحد

عمارت۔ پل۔
 الرّاجس: وہ تیل جو کھلیان کے وسط میں ہو اور دوسرے تیل اس کے بعد ہوں۔
 الرّكاس: رسی جو اونٹ کی مہار میں باندھ کر زانو میں باندھ دیں۔
 الرّكاسة والرّكاسة: جو چیز زمین میں گاڑی جائے جیسے 'مخ' کیل وغیرہ۔
 الرّكيس: اوندھا کیا ہوا۔ کمزور۔
 رَكَضَ: (ن) رَكَضًا: دوڑنا۔ پاؤں ہلانا۔
 رَكَضَ: ہ: دفع کرنا۔ الرّكوس برّجلیہ: گھوڑے کو ایز لگانا۔ الرّكاس برّجناخیه: پرندہ کا جلدی سے پر پھڑ پھڑانا۔ مَنَ: جلدی سے بھاگنا۔
 الرّكوس: ستاروں کا چلنا۔ الرّكوس: تیر اندازی کرنا۔ الرّكوس والسّوب: حیر سے ملنا۔
 رُكَضَ الرّكوس: دوڑایا جانا۔ صفت (مَرَكُوسٌ)
 رَاكَضَهُ مُرَاكَضَةً: گھوڑا۔ دوڑانے میں مقابلہ کرنا۔
 تَرَاكَضَ الرّكوس: القوم: باہم دوڑانا۔
 الرّكاض: ہلنا۔ مضطرب ہونا۔ الرّكاض: پیٹ میں حرکت کرنا۔ الرّكاض فی امرہ: اپنے معاملہ میں تصرف کرنا۔ الرّكاض فی امرہ: دوڑانا۔ القوم فی المیدان: دوڑنے میں مقابلہ کرنا۔
 الرّكضة: حرکت۔ دھکا۔
 الرّكوس: تیر دوڑنے والا۔ الرّكوس: جلدی تیر چھیننے والی کمان۔
 الرّكاض: بہت دوڑنے والا۔
 الرّكض: آگ سلگانے کی چیز۔
 الرّكوس: کمان کا گوشہ۔ ج مَرَاكِضُ۔
 مَرَاكِضُ الرّكوس: حوض کے کنارے۔
 الرّكضة: کمان کا گوشہ۔ گھوڑا جو زمین پر اپنی ناگوں کو مارے۔ الرّكوس (مُرَاكِضَةٌ): جلدی تیر چھیننے والی کمان۔
 رَكَعَ: (ف) رَكْعًا ورَكْعًا: ہر جھکانا۔

رَكَعَ الرّكوس: گاڑنا۔
 الرّكوس: المَعْدِن: دھات والا ہونا۔
 الرّكوس: کان پانا۔
 الرّكوس: الرّكوس: رگ کا حرکت کرنا۔
 الرّكوس: الرّكوس: ایسی جگہ میں برقرار رہنا۔
 الرّكوس: الرّكوس: الاشی پر سہارا لینا۔
 الرّكوس: الرّكوس: آہٹ۔ آواز۔ آہٹ۔ دانا و فیاض آدمی۔
 الرّكوس: الرّكوس: صاحب وقار و بخیدہ آدمی۔
 الرّكوس: الرّكوس: حزم۔ حکمت۔ ثبات۔ عقل۔ کہا جاتا ہے "رَكْعَةٌ فَمَا رَأَيْتُ لَهَا رَكْعَةً" میں نے اس سے گفتگو کی تو اس کے اندر میں نے عقل کا کچھ حصہ نہیں دیکھا۔ الرّكوس: چاندی یا سونے کا بڑا ٹکڑا۔ گھوڑا کا درخت جو جڑ سے اٹھیر لیا جائے۔
 الرّكوس: الرّكوس: زمین کے اندر دفن کئے ہوئے جواہر۔ ج رَكَاوِزُ۔
 الرّكوس: الرّكوس: زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی دھاتیں۔ واحد (رَكْعَةٌ) ج رَكْعَةٌ ورَكْعَانُ۔
 الرّكوس: الرّكوس: دائرہ کا وسطی نقطہ جس سے دائرہ تک جتنے خط نکلیں باہم برابر ہوں۔ رہنے کی جگہ۔ ج مَرَاكِزُ۔ مَرَاكِزُ الرّكوس: دانت نکلنے کی جگہیں۔
 رَكَسَ: (ن) رَكْسًا: الرّكوس: الرّكوس: اونت پر رکاس باندھنا (دیکھئے لفظ رَكَسَ)۔
 الرّكوس: اوندھا کرنا۔ الرّكوس: پہلی حالت پر لوٹا دینا۔ الرّكوس فی الصّیغ: کپڑے کو دوبارہ رنگ میں ڈالنا۔
 الرّكوس: الرّكوس: پستان اُبھرنا شروع ہونا۔
 الرّكوس: الرّكوس: الشّعر: بالوں کا تہہ ہونا۔
 الرّكوس: الرّكوس: اوندھا ہونا۔ دوبارہ ہٹلانے مصیبت ہونا۔ بھڑ کرنا۔ الرّكوس: اقامت کرنا۔ ٹھہرنا۔
 الرّكوس: الرّكوس: پلیدی۔ گندگی۔ الرّكوس: جماعت۔ گرنے کے بعد مرمت کی ہوئی

رَكْعَتُهُ الرّكوس: فلاں اپنے اصل کے لحاظ سے کریم ہے "الرّكوس الرّكوس" باوجود جہالت کے اپنے آپ کو عالم سمجھنا۔
 الرّكوس: الرّكوس: سوار۔ ج مَرَاكِبُ۔
 رَكَعَ: (ف) رَكْعًا ورَكْعًا: الرّكوس: الرّكوس: سہارا لینا۔ ٹیک لگانا۔ (رَكْعًا) الرّكوس: الرّكوس: مال ہونا۔
 الرّكوس: الرّكوس: سہارا لینا۔ ہ: الرّكوس: ٹیک لگانا۔ کہا جاتا ہے "الرّكوس الرّكوس" میں نے اس کی طرف اپنی پیٹھ کی ٹیک لگائی۔
 رَكَعَ: الرّكوس: الرّكوس: حصول معیشت کے لئے تصرف کرنا۔ الرّكوس: فراخی و کشادگی کرنا۔ الرّكوس: اقامت کرنا۔ ٹھہرنا۔
 الرّكوس: الرّكوس: پہاڑ کی ٹکلی ہوئی نوک۔ پہاڑ کا گوشہ۔ بنیاد۔ گھر کا گھن۔ ج رَكْعُوسُ۔
 الرّكوس: الرّكوس: راہیوں کے مکانات۔
 الرّكوس: الرّكوس: گھر کا گھن۔ ج رَكْعُوسُ۔
 الرّكوس: الرّكوس: سخت بلند زمین۔
 الرّكوس: الرّكوس: رشید سے بھرا ہوا پیالہ۔
 رَكَعَ: (ن) رَكْعًا: الرّكوس: الرّكوس: ٹھہرنا۔
 الرّكوس: الرّكوس: ترازو کا برابر ہونا۔ الرّكوس: العنب: جوش ٹھنڈا پڑنا۔ الرّكوس: الرّكوس: تپخت بیٹھنا۔ الرّكوس: الرّكوس: ٹھہر جانا۔ کہا جاتا ہے "رَكَعَ رَكْعَتُهُ" یعنی ان کی حکومت جاتی رہی۔
 الرّكوس: الرّكوس: قا۔ ٹھہرا ہوا۔
 الرّكوس: الرّكوس: ہمیشہ دودھ دینے والی اونٹنی۔
 الرّكوس: الرّكوس: ٹھہرنے کی جگہیں۔
 رَكَعَ: الرّكوس: کمزور ہونا۔ الرّكوس: بزدل ہونا۔ کہا جاتا ہے "رَكَعَ رَكْعَتُهُ" وہ ہر چیز میں کمزور ہے۔
 رَكَعَ: (ن) رَكْعًا: الرّكوس: الرّكوس: زمین میں گاڑنا۔ دفن کرنا۔ الرّكوس: رگ کا حرکت کرنا۔

پشت - خم کرنا اِلَى اللّٰهِ : اللہ کے سامنے
 پست ہونا السَّرْجُلُ : تو آگری کے بعد
 محتاج ہونا - اوندھا ہونا و پھسلنا -
 رُكْعَةٌ وَاَرُكْعَةٌ : جھکوانا -
 السَّرَايِعُ : فاسر جھکانے والا - رَجَزٌ اِكْبَعُونَ
 وُرُكْعٌ وُرُكْعُوعٌ
 الرُّكْعَةُ وَاَلرُّكْعَةُ : زمین کا گڑھا - الرُّكْعَةُ
 رُكْعٌ : کاسم مرہ -
 رُكْعَلُهُ (ن) رُكْعًا وُرُكْعَلُهُ : لات مارنا - اِزْ
 لْگاتا - کہا جاتا ہے "رُكْعَلُ الْفَرَسِ" اس نے
 گھوڑے کو دوڑانے کے لئے ایز لگائی -
 رُكْعَلَتِ الْخَيْلُ الْاَرْضَ : زمین پر سم مارنا -
 رَاكْعًا : صَاحِبُهُ : ایک دوسرے کو لات
 مارنا -
 قَوَاكِلُ الْقَوْمِ : باہم لات مارنا -
 تَرَكَّلَ الْخَافِرُ بِالْمِسْحَاةِ وَعَلَيْهَا يَأْوِسُ
 سے زمین میں دھسنانا - تَرَكَّلَتِ الْاَرْضُ :
 کھروں سے کھدنا -
 الرُّكْلُ : گندنا - (وَالرُّكْلُ) : گندنا فروش -
 الرُّكْعَةُ : رکھل کاسم مرہ - ساگ کا گٹھا -
 السَّرْوَكِلُ : راستہ - جانور کو ایز لگنے کی جگہ -
 رَجْمَ السَّرَاكِلِ : تم کہتے ہو "قَرَسٌ نَهْدُ
 الْمَرَاكِلِ" : بڑے پہلوؤں والا گھوڑا -
 الْمِرْكَلُ : سوار کا پیر - رَجْمَ السَّرَاكِلِ
 رُكْمٌ : (ن) اَرُكْمًا : الشَّيْءُ : تہ پتہ کرنا -
 ڈھیر لگانا - تَرَاكْمٌ وَاِرُكْمٌ : الشَّيْءُ : ڈھیر
 لگنا - کہا جاتا ہے "تَرَاكْمٌ لِحُمْ فُلَانٍ" یعنی
 فلاں مونا ہو گیا -
 الرُّكْمُ : تہ پتہ بادل -
 الرُّكْمَةُ : پیچڑ کا ڈھیر -
 السَّرْكَامُ : تہ پتہ بادل یا ریت وغیرہ کا ڈھیر -
 قَطِيْعٌ : رُكَامٌ : بڑا ریز -
 الرُّكَيْمَةُ (الدَّرِيْمَةُ) : ایٹھی مواد پیدا کرنے کا
 آلہ -
 الْمِرْكَمُ : بجلی بھرنے کا آلہ -
 مَرْتَبِكُمْ : الطَّرِيقُ : شاہراہ -
 السَّرْكُومُ : مَسْحَابٌ مَرْكُومٌ : تہ پتہ

بادل - نَاقَةٌ مَرْكُومَةٌ : موٹی اونٹنی -
 رُكْنٌ (ن) وُرُكْنٌ (س) رُكْنُوْنَا : اِلَيْهِ :
 مائل ہونا - آرام لینا - اعتماد و بھروسہ کرنا -
 رُكْنٌ : (ك) رُكْبَانَةٌ وُرُكْنَةٌ : صاحب
 وقار و سنجیدہ و ثابت قدم بنانا -
 اُرُكْنٌ : اِلَيْهِ : بھروسہ کرنا -
 تَرُكْنٌ : مضبوط و صاحب وقار ہونا -
 السَّرْكُنُ : باعث تقویت - عزت و قوت و
 غلبہ - بڑا معاملہ مِنْ الشَّيْءِ : جز - ہر چیز کا
 قوی کنارہ - کہا جاتا ہے "فُلَانٌ رُكْنٌ مِنْ
 اَرْضَانِ قَبُوْمِهِ" فلاں اپنی قوم کے اشراف
 میں ایک شریف ہے - رُكْنُ الرُّجُلِ : آدمی
 کی قوم - رَجُ اَرْضَانِ وَاِرُكْنٌ : الازرکان :
 اجسام بے سبط جن سے مادیات کی ترکیب ہوتی
 ہے اور قدماء کے نزدیک وہ چار ہیں - آگ
 پانی ہوا اور مٹی -
 الرُّكْنُ : چوہا - جنگلی چوہا -
 اَرْضَانُ الْحَرْبِ : فوجی قیادت کے
 قائدین - وہ جگہ جہاں فوجی قائدین رہائش
 پذیر ہوں -
 السَّرْكِيْنُ : ثابت قدم - سنجیدہ - باوقار -
 السَّرْكِيْنُ مِنَ الْجَبَالِ : بلند اطراف والا
 پہاڑ -
 الرُّكْنُ : چوہا - جنگلی چوہا -
 الْاَرْضُكُوْنُ : ریش - بڑا کسان - رَجُ اَرْضَاكِنَةٌ :
 (کلمہ یونانی سے)
 الْمِرْكُنُ : بگن - کپڑے وغیرہ دھونے کا
 ٹب - رَجُ قَرَاكِنِ
 السَّرْكُنُ : بڑا ٹھن - نَاقَةٌ مَرْكُومَةٌ : بڑے
 ٹھنوں والی اونٹنی -
 رُكَا : (ن) رُكْوًا : الْاَرْضُ : کھودنا -
 الْحَوْضُ : حوض کو بنا کر تیار کرنا الْاَمْرُ :
 درست کرنا الشَّيْءُ : باندھنا الْاَمْرُ :
 مؤخر کرنا السَّحْمَلُ عَلَى الْبَعِيْرِ : بوجھ دو
 چند لادنا بِالْمَكْمَانِ : اقامت کرنا
 عَلَى فُلَانٍ : برائی بیان کرنا -
 اَرْضُكِي اِرْكَاءًا : الْاَرْضُ : کھودنا - الْحَوْضُ :

حوض کو تیار کرنا الْاَمْرُ : مؤخر کرنا -
 عَلَيْهِ : برائی بیان کرنا اِلَيْهِ : پناہ
 لینا -
 لَهُمْ جُنْدًا : کسی کے لئے فوج تیار کرنا -
 رَاكْعِي : عَلَى الْاَمْرِ : کسی معاملہ پر بھروسہ و
 اعتماد کرنا -
 تَرَكْنِي وَاِرُكْنِي : عَلَيْهِ : کسی پر بھروسہ کرنا -
 اعتماد کرنا -
 الرُّكْوَةُ : بتثلث الرِّاء : چھوٹی ڈوگی - وہ
 برتن جو انگور وغیرہ نچوڑتے وقت جمع ہونے
 کے لئے نیچے رکھیں - السَّرْكُوَةُ : چھاگل ج
 رکھنا وُرُكْوَاتُ
 الرُّكْوَةُ : پانی والا کتواں - رَجُ كَانِيَا وُرُكْبِي
 السَّرْكِيكِي وَالْمَرَاكِي : ہمیشہ رہنے والا -
 الْمَرْكُوُ : کنوئیں کا چوچک - بڑا حوض -
 الرُّكْبِي : ضعیف دست -
 رَمٌ : (ن) رَمًا وَمَرْمَةً : الْبِنَاءُ اَوْ الْاَمْرُ :
 درست کرنا - مرمت کرنا السَّهْمُ : بَغِيْبُهُ :
 تیر کو دیکھنا اور اسے ہموار کرنا الْبَهِيْمَةُ :
 چوپائے کا لکڑیوں کو منہ سے پکڑنا اور کھانا
 الشَّيْءُ : کھانا -
 رَمٌ : (ض ن) رِمَةً وَرِمًا وَرِمِيْمًا : الْعَظْمُ :
 ہڈی کا بوسیدہ ہونا - صفت (رَمِيْمٌ) رَجُ اِرْمَاءُ
 رَمٌ الْجَبَلِ : رسی کا ٹوٹنا -
 اَرَمٌ : الْعَظْمُ : بوسیدہ ہونا - پُرْمَغْرٌ ہونا - اَرَمٌ
 اِلَى الْاَلْهَوِ : بھیل کی طرف مائل ہونا -
 الْقَوْمُ : خاموش ہونا -
 رَمَمٌ : الْبِنَاءُ : عمارت کی مرمت کرنا -
 درست کرنا -
 تَرَمَمٌ : الشَّيْءُ : کسی چیز کی اصلاح و درستی کے
 درپے ہونا الْعَظْمُ : ہڈی سے گوشت
 چھڑا لینا -
 اِرْتَمَتْ : الْبَهِيْمَةُ : چوپائے کا ٹہنیوں کو منہ
 سے پکڑ کر کھانا - اِرْتَمَ مَا عَلَى الْخُوَانِ : کھا
 کر دسترخوان کا سب کچھ صاف کر دینا -
 اسْتَرَمَ : الْبِنَاءُ : عمارت کا قابل مرمت ہونا
 الرُّجُلُ : کسی چیز کی درستی کے لئے بلانا -

خلاف مانند جماعت واحدہ کے ہیں۔
 وَأَخَذَتْ الْإِبِلَ رِمَاحَهَا یعنی اونٹنیاں
 موٹی ہو گئیں یا دودھ دینے لگیں اور ان وجہ
 سے انہوں نے اپنے آپ کو ذبح ہونے سے
 بچالیا۔ الرَّمَاحُ: فقر و قاتلہ۔
 الرَّمَاحِ: نیزہ والا (اس معنی میں فاعل ذی
 محذو: ہے اور اس کے لئے فعل نہیں)
 شَوْرَ رَمَاحٍ: سیٹگوں والا تیل۔ السَّمَاكُ
 الرَّمَاحِ: ایک ستارہ کا نام۔
 الرَّمَاحِ: نیزہ ساز۔ نیزہ لینے والا۔ ج
 رَمَاحَةٍ وَرَمَاحَةٍ مِنَ الْقَبِي: زور سے
 نیزہ پھینکنے والی کمان۔
 الرَّمَاحِ: نیزہ سازی۔
 ذَابَةٌ (رَمَاحَةٌ وَرَمُوحٌ): بہت کاٹنے والا
 جانور۔
 الرَّمَاحِ: نرم و تابع ہونا۔
 الرَّمَاحِ: چوپائے کے دانت لگانا۔
 مونا ہونا۔
 الرَّمَاحِ: بہت سے درخت جو آپس میں گتھے
 ہوئے ہوں۔
 رَمَدٌ (ض) زَمَدًا ورمادہ: سردی سے
 ہلاک ہونا۔ (نض) (زَمَدًا) القوم: قوم پر
 پہنچ کر ہلاک کر دینا۔
 رَمَدَتْ (س) زَمَدًا. العَيْنُ: آنکھ دکھنا
 السَّرْجُلُ: آشوب چشم والا ہونا۔ رَمَدَ
 عَيْنُ القوم: ہلاک ہونا۔
 رَمَدَ الشَّيْءُ: راگھ میں ڈالنا۔ رَمَدَتْ
 النَّاقَةُ: جھن والی ہونا۔
 الرَّمَاحِ: محتاج ہونا القوم: قحط و خشک سالی
 میں پڑنا۔ قوم کے مویشیوں کا ہلاک ہونا۔
 العَيْنُ: جتلانے آشوب چشم والا کرنا۔
 الرَّمَادَةُ: راگھ جیسا کر دینا۔ ہلاک کر دینا۔
 الرَّمَادَةُ: خشکری رنگ کا ہونا۔
 العَيْنُ: آنکھ کا دکھنا فلانٌ: شتر مرغ
 کی طرح دوڑنا۔
 الرَّمَادَةُ: آشوب چشم۔ آنکھ کا دکھنا۔ ہر وہ چیز
 جو آنکھ کے لئے تکلیف دہ ہو۔

میں کچھ دودھ چھوڑ دینا۔
 الرَّمَاحُ وَاسْتَرَمَتْ. فِي قَالِهِ: باقی رکھنا۔
 الرَّمَاحُ الشَّيْءُ: نرم کرنا۔
 الرَّمَاحُ: غصا کے مشابہ ایک درخت کا نام۔
 ایک قسم کی شور و تلخ گھاس جس کو اونٹ
 چرتے ہیں۔ پرانے کپڑوں والا مرد۔ کمزور
 پیٹھ والا۔
 الرَّمَاحُ: جھن کا بقیہ دودھ۔ دریا کے عبور
 کرنے کے لئے لکڑیوں کا تختہ۔ زیادتی۔
 فضیلت۔ کہا جاتا ہے "لِفَلَانٍ عَلَى فُلَانٍ
 رَمَتْ": فلان کو فلان پر فضیلت ہے۔ پرانی
 رسی۔ جِ الرَّمَاحُ ورمسات اور کہا جاتا ہے
 "حَبِلَ الرَّمَاحُ" پرانی رسی۔
 الرَّمَاحَةُ: دھونے کے بعد جھن کا بقیہ دودھ۔
 الرَّمَاحَةُ وَالرَّمَاحَةُ: رمت گھاس اگانے
 والی زمین۔
 الرَّمَاحَةُ: مادہ تیل گائے۔
 رَمَجَ: (ن) رَمَجًا. الطَّائِرُ: پرندہ کا بیت
 کرنا۔
 رَمَجَ الكَاتِبُ: لکھنے کے بعد خراب کرنا۔
 رَمَجَ: فا۔ پرندہ جس کو جال میں باندھ
 دیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعہ سے شکاری
 پرندوں کا شکار کریں یا لوگ اس کے پر
 باندھ دیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعہ سے باز
 کا شکار کریں۔
 الرَّمَاحِ: نیزے کی گرہیں اور پورے۔
 رَمَجَ: (ف) رَمَجًا: نیزہ مارنا۔ رَمَجَتْهُ
 الذَّابَّةُ: جانور کالات مارنا۔ رَمَجَ البُرُقُ: بجلی
 کا آہستہ آہستہ چمکانا۔
 رَمَجُوا: باہم نیزہ بازی کرنا۔
 تَرَمَجَ القومُ: ایک دوسرے کو نیزہ مارنا۔
 الرَّمَاحِ: نیزہ۔ جِ رَمَاحٍ وَأَرَمَاحٍ کہا جاتا
 ہے "كَسَرُوا بَيْنَهُمْ رَمَاحًا" یعنی ان کے
 درمیان شرفساد واقع ہو گیا۔ "رَمِينَا بِيَوْمٍ
 كَطَلَّ الرَّمَاحُ": یعنی ہم ایسے دن میں نہیں
 گئے جو لہا تھا اور رنگ تھا۔ "نَهْمَ عَلَى بَنِي
 فُلَانٍ كَرَمَاحٍ وَأَجِدُ" وہ لوگ بنی فلان کے

الرَّمَاحُ: مٹا اور کہا جاتا ہے "فَالْيَوْمِ مِنْهُ حَمٌّ
 وَلَا رَمٌّ" مجھے اس سے چارہ نہیں یعنی یہ میرے
 لئے ضروری ہے۔ "فَالْيَوْمِ مِنْهُ حَمٌّ وَلَا رَمٌّ":
 یعنی اس کے پاس کچھ نہیں
 الرَّمَاحُ: نمناک مٹی۔ گودا۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ
 بِالطَّبَعِ. والرَّمَاحُ" وہ بری و بگری چیزیں یا خشک
 و تر چیزیں یا مٹی و پانی یا بہت مال لے کر آیا۔
 الرَّمَاحُ: عم۔ جماعت۔
 الرَّمَاحُ: مِنَ البِغَاجِ: سفید بھیر۔
 الرَّمَاحَةُ: پرانی رسی کا ٹکڑا۔ جِ رَمَمٌ اور کہا جاتا
 ہے "أَعْطَاهُ الشَّيْءُ بَرَمَتَهُ" اس نے اس کو
 سب کچھ دے دیا۔
 الرَّمَاحَةُ: پرانی رسی کا ٹکڑا۔ پر درار چوٹی۔
 بوسیدہ ہڈی۔ جِ رَمَمٌ درمام۔
 الرَّمَاحَةُ مِنَ الحَوَارِي: بہتر کار پر داز و ماہر
 لڑکی۔ جِ رَمَمٌ۔
 حَبِلَ (رَمَمًا وَرَمَمًا وَرَمَمًا): پرانی و بوسیدہ
 رسی۔
 الرَّمَاحُ وَالرَّمَاحُ: بوسیدہ۔
 الرَّمَاحَةُ: بقدر ضرورت گزارہ۔ کہا جاتا ہے
 "كَسَفِي بِالرَّمَاحَةِ" اس نے بقدر ضرورت
 گزارہ پر کفایت کی۔
 الرَّمَاحَةُ وَالرَّمَاحَةُ: کھر دار جانور کا ہونٹ۔
 الرَّمَاحَاتُ: مہمیتیں۔
 رَمًا: (ف) رَمًا وَرَمُوعًا. بِالْمَكَانِ:
 اقامت کرنا السَّخِرُ: گمان کرنا اور
 اندازہ کرنا وَأَرَمًا عَلَى الجَائِهِ: زائد
 ہونا۔ رَمًا إِلَيْهِ: قریب ہونا۔
 رَمَمَاتُ الأَخْبَارِ: چھوٹی خبریں۔
 رَمَمَهُ: (ن) رَمَمًا: درست کرنا۔ ہاتھ سے
 پونچھنا۔ جِ رَمًا الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: ملانا۔ مخلوط
 کرنا۔
 رَمَتْ: (س) رَمَمًا. أَلْبَعِيْرُ: رمت درخت
 کے پتوں کے کھانے سے بیمار ہونا۔ أَمْرُهُمْ:
 گڈمڈ ہونا۔ مخلوط ہونا۔
 رَمَتْ (س) عَلَى الجَائِهِ: زائد ہونا۔
 (..... وَأَرَمَتْ) الحَالِبُ فِي الضَّرْعِ: جھن

الزَّمَدُ: آشوبِ چشم والا..... مِنْ السَّيَّاهِ: متغیر پانی..... مِنْ السَّيَّابِ: میلا پھیلا کپڑا۔ مؤنث زَمْدَةٌ۔	الرُّمُزُ وَالرُّمُزُ وَالرُّمُزُ: اشارہ۔ ج رُمُوزٌ۔ الرُّمُوزِيُّ: مکرم و معظم۔ اسمیل۔ عقل مند۔ بہت حرکت کرنے والا۔ کہا جاتا ہے "رُجُلٌ رُمُوزٌ الْفُؤَادِ": تنگ دل مرد۔
الرَّمَادُ: آشوبِ چشم والا۔ خاکستری رنگ کا۔ كَسُوبٌ رَمَدٌ: میلا پھیلا کپڑا۔ مؤنث زَمْدَاءُ. الرَّمْدَاءُ: شتر مرغ۔ ج رَمْدٌ۔ الرَّمَادُ: راکھ۔ ج رَمْدَةٌ اور عرب کا قول "هُوَ يَنْفُخُ فِي رَمَادٍ": مثال ہے اور اس شخص کے حق میں بولتے ہیں جو بے فائدہ کام کرے۔	الرَّمَادُ: خشک دل مرد۔ الرَّمَادُ: زہریلے رنگ کا۔ الرَّمَادُ: خشک دل مرد۔ الرَّمَادُ: زہریلے رنگ کا۔ الرَّمَادُ: خشک دل مرد۔
الرَّمَادِيُّ: خاکستری رنگ کا۔ الرَّمِيدَاءُ وَالرَّمِيدَاءُ: خاکستر۔ راکھ۔ الرَّمِيدُ وَالرَّمِيدَةُ: آشوبِ چشم والا۔ الرَّمِيدُ: گرم راکھ میں بھونا ہوا۔	الرَّمِيدُ: خشک دل مرد۔ الرَّمِيدُ: زہریلے رنگ کا۔ الرَّمِيدُ: خشک دل مرد۔
رَمَزٌ (ن ض) رَمَزًا. إِلَيْهِ: اشارہ کرنا۔ ہجرت۔	رَمَزٌ (ن ض) رَمَزًا. إِلَيْهِ: اشارہ کرنا۔ ہجرت۔
رَمَزٌ: (ن) رَمَزَانًا. الظُّنَى: ہرن کا چھلانگ مارنا..... غَنَمَهُ: ایک چرواہے سے ناراض ہو کر بکریوں کو دوسرے کے سپرد کرنا۔	رَمَزٌ: (ن) رَمَزَانًا. الظُّنَى: ہرن کا چھلانگ مارنا..... غَنَمَهُ: ایک چرواہے سے ناراض ہو کر بکریوں کو دوسرے کے سپرد کرنا۔
رَمَزٌ: (ك) رَمَازَةٌ: بہت حرکت کرنا۔ عقل مند ہونا۔ بزرگ و شریف ہونا۔	رَمَزٌ: (ك) رَمَازَةٌ: بہت حرکت کرنا۔ عقل مند ہونا۔ بزرگ و شریف ہونا۔
رَمَزٌ وَرَمَزٌ وَرَمَزٌ: تیار ہونا..... مِنْ الرَّمَزِيَّةِ: مار سے تھلا اٹھنا..... القَوْمُ: انھیں کے لئے یا خصوصیت کے لئے اپنی جگہ ہی پر کھلانا۔	رَمَزٌ وَرَمَزٌ وَرَمَزٌ: تیار ہونا..... مِنْ الرَّمَزِيَّةِ: مار سے تھلا اٹھنا..... القَوْمُ: انھیں کے لئے یا خصوصیت کے لئے اپنی جگہ ہی پر کھلانا۔
الرَّمَزُ الرَّمَزِيُّ: جگہ سے بنا جگہ سے چھپے رہنا (ضد) منقبض ہونا۔ متحرک ہونا۔	الرَّمَزُ الرَّمَزِيُّ: جگہ سے بنا جگہ سے چھپے رہنا (ضد) منقبض ہونا۔ متحرک ہونا۔
رَمَزٌ: القَوْمُ: ہر ایک کا دوسرے کی جانب اشارہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمْ فَنَعَمْتُمْ وَارْتَمَيْتُمْ" میں ان کے پاس گیا تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگے۔	رَمَزٌ: القَوْمُ: ہر ایک کا دوسرے کی جانب اشارہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "فَدَخَلْتُ عَلَيْهِمْ فَنَعَمْتُمْ وَارْتَمَيْتُمْ" میں ان کے پاس گیا تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگے۔

تھوڑے آنسو بہانا۔ الرَّمَشُ: پلکوں کی سرخی سیلان آب کے ساتھ۔ پلک کے بالوں کا آپس میں چٹ چٹا جانا۔ الرَّمَشُ: نوجوانوں کے ناخن کی سفیدی۔ الرَّمَشُ: بھس۔ پھولوں کا دستہ۔ الرَّمَشُ: العَيْنُ: پلک۔ الرَّمَشُ: خوبصورت بناوٹ والا۔ مؤنث رَمَشَاءُ. ج رَمَشٌ (..... وَالرَّمَشُ): چند ہی آنکھوں والا۔ الرَّمَشُ: مختلف رنگوں والا۔ الرَّمَشُ (رَمَشَاءُ): بہت گھاس والی زمین۔ خشک بے گھاس کی زمین (ضد) الرَّمَشُ: دیکھتے وقت آنکھوں کو بہت پھرانے والا۔ ج رَمَشَاءُ. الرَّمَشُ (ن) كَرَمًا. اللَّهُ مُصَيَّبَةٌ: مصیبت کو دفع کرنا۔ دور کرنا..... بَيْنَهُمْ: صلح کرنا..... الشُّيْءُ: بُؤْتَانًا..... إِلَيْهِ: کسی طرف پست نگاہ سے دیکھنا..... السَّدَجَاخَةُ: بیٹ کرنا۔ صفت (رَمُوشٌ)..... السَّبَاغُ: پچھنا۔ کہا جاتا ہے "قَبِيحُ اللَّهِ أَمَارٌ مَصَّتْ بِهِ": بُرَا کرے اللہ اس ماں کے لئے جس نے اس کو جتا ہے۔ رَمَصَتْ (س) رَمَصًا. غَيْبُهُ: کچھ بھنا۔ صفت مذکر (رَمَصٌ): صفت مؤنث (رَمَصَاءُ): ج رَمَصٌ. رَمِصُ الرَّجُلِ: کچھ بھتی ہوئی آنکھوں والا ہونا۔ الرَمِصُ: بھس۔ آنکھ کا کچھ بھنا۔ رَمِصٌ (س) رَمِصًا. النِّهَارُ: دن کا سخت گرم ہونا..... الشَّمْسُ: ریت وغیرہ پر سخت دھوپ پڑنا..... السَّرَجُلُ: گرم زمین سے پاؤں جلنا۔ الرَّمَالُ: الطَّلَانُ: پیاس کی تیزی سے پرندہ کے جوف کا گرم ہونا..... غَيْبُهُ: گرم ہو کر جل اٹھنا..... الرَّمَالُ: غصہ سے جل اٹھنا۔ رَمِصٌ (ن ض) رَمِصًا. النَّصْلُ: ہار ایک ہونے کے لئے دو ہموار پتھروں کے درمیان

رکھ کر کوٹنا)..... وَرَمَضُ (أَرَمَضُ) الْغَنَمُ :
 گرم زمین میں چرانا۔ وَرَمَضُ الصَّوْمُ :
 روزہ کی نیت کرنا۔ رَمَضُ الرَّجُلُ : کچھ
 انتظار کر کے چلا جانا۔ وَأَرَمَضُ الشَّيْءُ :
 چلانا۔ أَرَمَضُ الرَّجُلُ : تکلیف پہنچانا۔ دکھ
 دینا۔ أَرَمَضُ الْحَرُّ الْقَوْمَ : گرمی تیز ہونے
 سے تکلیف پہنچانا..... الْأَمْرُ لَمَلَانًا : غصے سے
 چلانا۔
 تَرَمِضُ الصَّيْدَ : سخت گرم جگہ میں شکار
 کرنا۔ تَرَمِضَتْ نَفْسُهُ : جی ملانا۔
 إِزْمَضُ مِنَ الْحُزْنِ : غم سے جل اٹھنا.....
 لِغُلَانٍ : کسی کے لئے غمگین ہونا..... كَيْدُهُ :
 خراب ہونا..... الْفَرَسُ بِهِ : کوڈنا۔
 السَّرْمَضُ : بھس۔ گرمی کی جلن۔ خریف سے
 پہلے کی بارش جو گرم زمین پر ہو۔
 السَّرْمِضِيُّ : مِنَ السَّحَابِ وَالْمَطَرِ : گرمی
 کے آخر اور خریف کی ابتداء کی بارش یا
 بادل۔
 رَمَضَانُ : قمری مہینوں کا نواں مہینہ۔ ج
 رَمَضَانَاتٌ وَرَمَضِينٌ وَأَرْمِضَاءُ
 وَأَرْمِضَةٌ.
 الرَّمِضَاءُ : گرمی کی تیزی۔ دھوپ کی تیزی کی
 وجہ سے گرم زمین۔
 الرَّمِضَةُ : ہر چیز کی تیزی۔
 الرَّمِضُ وَالرَّمِضَةُ : مِنَ الْبِضَالِ : تیز
 بہالا۔
 رَمَطَةٌ : (ض) رَمَطًا : عیب لگانا۔ طعن و تشنیع
 کرنا۔
 رَمَعَ : (ف) رَمَعَانًا : أَنَفَهُ : غصہ یا بڑھاپے
 کی وجہ سے کاٹنا۔ صفت (رَمَعَ)..... غَيْبُهُ
 بِالسُّمُوعِ : آنسو بہانا..... بَيْدُهُ : ہاتھ سے
 اشارہ کرنا..... رَأَسُهُ : سر ہلانا۔ رَمَعَتِ
 الْمَرْأَةُ بِالصَّبِيِّ : عورت کا بچہ جننا)..... رَمَعًا
 وَرَمَعَانًا : الرَّجُلُ : تیز چلنا۔
 رَمَعَ وَأَرَمَعَ : السَّاقِي : شراب پلانے
 والے کی پیٹھ یا پیٹ میں درد ہونا۔
 رَمِعَتِ الْمَرْأَةُ بِالصَّبِيِّ : عورت کا بچہ جننا۔

تَرَمَعَ : غصے سے کاٹنا۔
 الرَّامِعُ : فاعل۔ سر کو جھکا کر اٹھانے والا۔
 الرُّمَعَةُ : كَلْبًا : کہا جاتا ہے "رُمَعَةٌ مِنْ نَبْتٍ"
 : گھاس کا ایک قطعہ۔
 الرَّمَاعَةُ : دبر۔ بچہ کا تالو جو حرکت کرتا رہتا
 ہے۔
 الرُّومِعُ : پھر کی۔ سفید چمکتی ہوئی کنکریاں جو
 توڑنے سے ٹوٹ جاتیں۔ ج يَرَامِعُ کہا
 جاتا ہے "تَرَمَحَهُ نَيْفُ الرَّمَعِ" میں نے
 اس کو کنکریاں توڑتے ہوئے چھوڑا۔ یعنی وہ
 مغموم و شکستہ دل تھا۔
 الرُّمَعَةُ : بِيَابَانٍ : کہا جاتا ہے "أَتَيْتُ
 بِشُرُومَعَاتِ الْإِخْتِيَارِ" وہ جموئی خبریں لایا۔
 الرَّمَاعُ : ساقی کی پیٹھ کا درد جس کی وجہ سے
 وہ پلانہ سکے یا پیٹ کا درد جس سے چہرہ زرد
 پڑ جائے۔
 رَمَعَ : (ف) رَمَعًا : الشَّيْءُ : چیز سے وغیرہ کو
 ہاتھوں سے ملنا۔
 رَمَعَ : رَأَسُهُ : سر پر تیل لگانا..... الْكَلَامُ :
 گفتگو میں نمک مرچ لگانا..... الطَّعَامُ : ساکھ
 سے تر کرنا۔
 رَمَعَهُ : (ن) رَمَعًا : چھلکتی ہوئی نگاہ ڈالنا۔
 دیر تک دیکھنا۔
 رَمَعَ : دیر تک دیکھنا..... الْكَلَامُ : گھڑنا۔
 باطل سے آراستہ کرنا..... الْعَمَلُ : اچھی
 طرح نہ کرنا..... هِ بِالسَّيْءِ : کسی کی آخری
 سانس کو کسی چیز کے ذریعہ بچالینا۔
 رَمَعَ مَرَامَعَةً : الْعَمَلُ : اچھی طرح نہ کرنا
 السَّرَجُلُ : شر سے بچنے کے لئے سلوک
 کرنا۔ کہا جاتا ہے "هَذِهِ السَّخْلَةُ تَرَامِقُ
 بِغَرِقٍ" : یعنی یہ درخت خرمانہ بڑھتا ہے نہ ہی
 مرجھاتا ہے۔
 تَرَمَقَ : الْمَاءُ وَاللَّبَنُ : تھوڑا تھوڑا پینا۔
 إِزْمَقَ وَإِزْمَاقًا : الشَّيْءُ : کمزور ہونا۔ چلا
 ہونا۔
 إِزْمَاقُ الرَّجُلُ : دو بے پن سے ہلاک ہونا۔
 إِزْمَقَ الطَّرِيقُ : راستہ کا دراز ہونا۔

عَيْشٌ (رَمِيقٌ وَرَمَاقٌ) : تنگ زندگی۔
 الرَّمَاقُ : نفاق و دشمنی کی وجہ سے تر چھی نظر
 سے دیکھنا۔
 الرَّمِيقُ : بقیہ زندگی۔ مِنَ الْعَيْشِ : تھوڑا
 گزارا جو زندگی کے آخری سانس کو باقی
 رکھے۔ ج إِزْمَاقًا : الرَّمِيقُ : بکریوں کا گلہ
 (رمد فارسی کا معرب)
 الرُّمِيقَةُ وَالرَّمَاقُ وَالرَّمَاقُ : مِنَ الْعَيْشِ :
 تھوڑا گزارا جو زندگی کو باقی رکھے۔ قوت
 لایموت۔
 الرَّمِيقُ وَالرَّمُوقُ : نَقِيرٌ : حاسد۔ ج رُمِيقٌ :
 رَجُلٌ (رُمِيقٌ) : کمزور مرد۔
 السَّرْمِيقُ وَالسَّرْمِوقُ : الْعَيْشُ : تنگ گزارہ
 والا۔
 السَّرْمِيقُ : بِدُخْلٍ : تھوڑی محبت والا۔
 الرُّمِيقُ : کمزور نظر والا۔
 حَبِلٌ (أَرْمَاقٌ) : کمزور سی۔
 رَمَكَ : (ن) رَمُوكًا : بِالْمَكَانِ : اقامت
 کرنا..... الْإِبِلُ عَلَى الْمَاءِ : اُونٹوں کا پانی
 پر قیام کرنا۔ ٹھہرنا۔
 أَرَمَكُهُ : بِالْمَكَانِ : ٹھہرانا۔ قیام کرنا۔
 إِزْمَكَ إِزْمَاكًا : دِلا پتلا ہونا۔ السَّبْعِيُّ :
 اُونٹ کا خاکستری رنگ کا ہونا۔ صفت مذکر
 (أَرْمَكَ) : وَصْفٌ مَوْثَرٌ رَمَگَاءُ ج
 رُمُكٌ.
 إِسْتَرْمَكَ : الْقَوْمُ : حسب میں عیب دار
 ہونا۔
 الرَّمَاكُ وَالرَّمَاكُ : ایک قسم کی خوشبو۔
 السَّرْمَكَةُ : گھوڑی یا ترکی گھوڑی جو نسل
 بڑھانے کے لئے رکھی جائے۔ ج رَمَكَ
 وَرَمَاكٌ وَرَمَاكَاتٌ وَأَرْمَاكٌ رَجُلٌ
 رَمَكَةٌ : کمزور مرد۔
 الرُّمَكَةُ : اُونٹوں میں خاکستری رنگ۔
 رَمَلٌ (ن) رَمَلًا : الطَّعَامُ : کھانے میں
 ریت ملانا..... السَّبِيحُ : باریک ٹنٹا.....
 السَّرِيْرُ : جو اوپر وغیرہ سے آراستہ کرتا۔
 الْقَوْبُ بِالْدَمِ : کپڑے کو خون سے تھیرنا۔

آلودہ کرنا۔ ز۔ زَمَلًا وَزَمَلًا وَمَزَمَلًا :
 کندھوں کو ہلاتے ہوئے دوڑنا۔
 زَمَلْتُ. الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا: عورت کا بیوہ
 ہونا۔ النَّسِيخُ: باریک بنا۔ الْكَلَامُ :
 کلام کو گھٹیا قرار دینا۔ الْخَطُّ: خشک ہونے
 کے لئے ریت ڈالنا۔ الشُّوبُ بِاللَّدْمِ:
 کپڑے کا خون سے تھمنا۔
 أَرْمَلَ. الْقَوْمُ: توش ختم ہونا محتاج ہونا۔
 زَادَهُمْ: توش ختم کرنا۔ الْمَرْأَةُ: بیوہ ہونا۔
 الْحَبِلُ: رسی دراز کرنا۔ السَّهْمُ بِاللَّدْمِ: تیر
 کا خون سے آلودہ ہونا۔ النَّسِيخُ: باریک
 بنا۔
 تَرَمَلْتُ. الْمَرْأَةُ: عورت کا بیوہ ہونا۔
 تَرَمَلٌ وَإِزْمَلٌ بِاللَّدْمِ: خون سے آلودہ
 ہونا۔
 الرَّمْلُ: ریت۔ رَمَلَةٌ: اس سے خاص ہے ج
 رَمَالٌ وَأَرْمَلٌ عَلَيَّ الرَّمْلُ: ایک علم ہے جس
 میں ریت پر لکیریں کھینچ کر آئندہ کے احوال
 کو معلوم کرتے ہیں۔ أَمُّ رَمَالٍ: بچہ۔
 الرَّمَلُ: تھوڑی بارش۔ زیادتی۔ گائے کی
 ناگوں میں بدن کے رنگ کے مخالف
 دھاریاں۔ علم عروض میں ایک بحر کا نام۔ فَن
 مَوْسِقِيٌّ كَالَيْكِ رَأِيٌّ۔
 الرَّمْلَةُ: زمین کا ٹکڑا جس پر ریت ہو۔
 الرَّمْلَةُ: کالی دھاری ج رَمَلٌ وَأَرْمَالٌ.
 الْأَرْمَلُ: مسکین۔ مرد جس کی بیوی نہ ہو۔ مرد
 جس کی بیوی مر گئی ہو۔ رَمَلٌ وَأَرْمَلٌ
 وَأَرْمَلَةٌ: مَوْتٌ أَرْمَلَةٌ. غَامٌ أَرْمَلٌ: کم بارش
 والا سال۔
 الْأَرْمَلَةُ: ضعیف و محتاج لوگ۔
 سَنَةٌ (رَمَلَاءٌ): کم بارش والا سال۔ نَعِجَةٌ
 وَفُلَاءٌ: بھیڑ جس کی ٹانگیں سیاہ اور بقیہ جسم
 سفید ہو۔
 الرَّمَالُ: ریت بچنے والا۔
 الْجِزْمَلُ: چھوٹی بیڑی۔
 الرَّمُولُ وَالرَّمُولُ: شیر۔
 الرَّمَانُ: انار۔ انار کا درخت۔ واحد (رَمَانَةٌ)

الرَّمَانَةُ: ناف اور اس کا ارد گرد۔
 الرَّمَانَةُ: انار اگنے کی جگہ۔
 رَمِيَةٌ: (س) رَمَاهَا. الْيَوْمُ: دن کا سخت گرم
 ہونا۔
 رَمِي: (ض) رَمِيًا وَرَمِيَانَةً. الشَّيْءُ
 وَبِالشَّيْءِ: پھینکنا۔ کہا جاتا ہے "رَمِي السَّهْمُ
 عَنْ أَوْعَلِيِّ الْقَوْسِ: تیر کو کمان سے پھینکنا
 الْمَسْكَانُ: کسی جگہ کا قصد کرنا۔ الْمَلَذُ
 لَهُ: مدد کرنا۔ رَمَاهُ بِأَكْثَرِ: عیب لگانا۔ تہمت
 لگانا اور کہا جاتا ہے "رَمِي بِخَبَلِهِ عَلَيَّ
 غَارِبُهُ" اس نے اس کی رسی اس کے کاندھے
 پر رکھ دی یعنی اسے آزاد چھوڑ دیا۔ "رَمِي
 عَلَيَّ الْخَمْسِينَ: زائد ہونا۔ الْخَالُ:
 بہت ہونا۔ رَمِي بِهِ عَلَيَّ الْبَلَدُ: حاکم دوالی
 بنا نا۔
 أَرَمِي الرَّمَاءَ. الشَّيْءُ مِنْ يَدِهِ: پھینکنا۔
 عَنْ قَرِيبِهِ: گھوڑے سے گرا دینا۔
 أَرَمِي عَلَيَّ الْخَمْسِينَ: زائد ہونا۔ أَرَمْتُ
 بِهِ الْبِلَادَ: وطن سے دور کر دینا۔
 زَامَاهُ مُرَامَاهُ وَرَمَاهُ وَتَرَمَاهُ: ایک
 دوسرے کو دفع کرنا۔ ایک دوسرے پر تیر
 پھینکنا۔ رَامِي عَنْ قَوْبِهِ: تیر اندازی کرنا۔
 تَرَامِي تَرَامِيًا. الْقَوْمُ: بعض کا بعض پر تیر
 اندازی کرنا اور پتھراؤ کرنا۔ الْأَمْرُ: تاخیر
 ہونا۔
 السَّحَابُ: بعض کا بعض سے مل جانا۔
 تَرَامْتُ بِهِ الْبِلَادَ: وطن سے دور کر دینا۔
 تَرَامِي الشَّيْءُ: لگا تار ہونا۔ کہا جاتا ہے
 "مَا زَالَ الشَّرُّ يَتَرَامِي بَيْنَهُمْ" شران کے
 درمیان لگا تار ہوتا رہا۔ "وَتَرَامِي أَمْرًا إِلَى
 الظُّفْرِ أَوْ التَّخْلُافِ": اس کا معاملہ کامیابی یا
 ناکامی کی طرف پہنچ گیا۔
 إرْمِي إرْمِيًا: پھینکا جانا۔ کہا جاتا ہے
 "رَمَاهُ فَرَمِي" اس نے اسے پھینکا وہ پھینکا
 گیا۔ الصَّيْدُ: شکار پر تیر مارنا۔ إرْمَيْتُ
 بِهِ الْبِلَادَ: وطن سے دور کر دینا۔ إرْمِيًا: ایک
 کا دوسرے پر تیر پھینکنا۔

رَمِي: تیر پھینکنا اور شکار کرنا۔
 الرَّمِي: پتھر پھینکنے کی آواز۔
 الرَّمَاءُ: زیادتی۔ ربو۔ سود۔
 الرَّمِيَّةُ: زیادتی "فِي هَذَا رَمِيَّةٌ عَمَّا قَبْلُ
 لِسِي" جو کچھ مجھ سے کہا گیا ہے اس سے اس
 میں زیادتی ہے۔ "هُوَ صَاحِبُ رَمِيَّةٍ" وہ
 باتوں میں زیادتی کرنے والا ہے۔ رَمِي كَا
 اسم مرہ اور عرب کا قول "رَمِيَةٌ مِنْ غَيْرِ
 زَامٍ" مثال ہے اس شخص کے حق میں بولتے
 ہیں جو غلط کار ہو اور اتفاقاً کوئی صحیح کام
 کرے۔
 الرَّمِي: فا۔ ج رَمَاءٌ وَرَامُونٌ: ایک ستارہ
 کا نام۔
 الرَّمِي أَوْ قَبْ سِيَامٍ: بھگ۔
 الرَّمِي: سخت بارش برسانے والا۔ بادل۔
 ج الرَّمَاءُ وَأَرْمِيَّةٌ وَرَمَائِيَا.
 الرَّمِيَّةُ: شکار جس پر تیر پھینکا جائے۔ ج
 رَمَائِيَا.
 الرَّمِي: تیر پھینکنے کا آلہ۔ ج مَرَامٍ.
 الرَّمِيَّةُ: چھوٹا کمزور تیر۔ کھر۔
 الرَّمِي: مصدر رمي۔ تیر پھینکنے کی جگہ۔ کہا
 جاتا ہے "هَذَا الْكَلَامُ بَعِيدُ الرَّمَامِي" یہ
 کلام دور رس ہے۔ "وَمَا أَبْعَدُ مَرْمِي"۔
 "هَيْبَةُ" اس کی ہمت کا میدان کتنا وسیع ہے۔
 "وَلَسَهُ هَيْبَةٌ فَصِيَّةُ الرَّمِي" اس کی ہمت
 دور تک پہنچنے والی ہے۔
 رَمِي (ض) رَمِيًا وَأَرَمِي: رونے میں آواز
 بلند کرنا۔ فریاد کرنا۔ رَمِي وَأَرَمِي إِلَيْهِ: کان
 لگانا۔ رَمِي وَأَرَمِي الْقَوْسُ: آواز کرنا (رَمِي
 وَأَرَمِي وَاسْتَرَمِي) لگنا۔ کھیل کود کرنا۔
 رَمِي. الْقَوْسُ: آواز نکالنا۔ رَمِيًا
 وَرَمِيًا: بچنا۔
 الرَّمِيَّةُ: آواز مطلقاً کمان وغیرہ کی آواز کے
 لئے خاص ہے۔
 الرَّمِي: آواز مطلقاً یا غمگین آواز۔
 الرَّمِي: تھوڑا پانی۔ ایک جانور جو گرمی کے
 زمانہ میں ٹراتا ہے۔

<p>”رَدِيقٌ وَلَا تَعَجَلُ“ یعنی ٹھہرو انتظار کرو جلدی مت کرو..... النَّظَرُ إِلَيْهِ: دیر تک دیکھنا۔</p>	<p>آس کے مشابہ ہوتی ہے۔ گھجور کی پتیوں سے بنی ہوئی چھوٹی گون۔</p>	<p>قَوَسٌ (مُؤَنَّةٌ وَمُؤَنَانٌ): بہت آواز کرنے والی کمان۔</p>
<p>أَرَدَقَ: السَّمَاءُ: پانی گدلا کرنا..... اَلْبَلَوَاءُ: حملہ کرنے کے لئے جھنڈا ہلانا..... اَلْبَلَوَاءُ: جھنڈے کا ہلنا۔</p>	<p>الرُّنُو: چاول۔ رَنَعَ: (ف) رُنُوْعًا: دہلا دلا کر ہونا۔ لُونُوْهُ: رنگ کا متغیر ہونا..... السَّدَابَةُ: جانور کا سر ہلا کر کھسی اڑانا..... الرَّجُلُ: بھیلنا۔</p>	<p>السُّوْتِيُّ: تمام مخلوق۔ ماہ جمادی الاخریٰ کا نام اس معنی میں اس پر الف لام نہیں آتا۔ رَنًا: (ف) رَنًا: آواز کرنا..... إِلَيْهِ: دیکھنا..... فِي مَشِيئِهِ: گرا بنا چلنا۔</p>
<p>تَوَرَّقَ: السَّمَاءُ: پانی کا گدلا ہونا۔ الرُّوْقُ: مِص - جھبوت۔ السَّرْنَقَاءُ: مِنَ الطَّيْسِ: اٹل سے سینے والا پرندہ۔ عوام اس کو فرقہ کہتے ہیں۔ اَرْضُ رَنَقَاءُ: بجز زمین۔ ج رَنَقَاوَاتُ.</p>	<p>رَفَعَ: رَأْسَهُ: حرکت دینا۔ السَّرْنَقَةُ: بھیل کود کی آواز۔ وسعت بارخ۔ ارزانی و فراخ سالی کہا جاتا ہے ”إِنْ فِى السَّرْنَقَةِ لِكُلِّ قَوْمٍ مَقْتَعَةٌ“ ارزانی اور فراخی سال میں ہر قوم کے لئے آسودگی ہے۔</p>	<p>الأَرَنْبُ: خرگوش۔ (یہ بزدلی کے لئے ضرب المثل ہے) ایک قسم کا زیور۔ ج اَرَانِبُ (..... وَالرُّنْبُ): چھوٹی دم کا ایک قسم کا جنگلی چوہا۔</p>
<p>السَّرْنَقَةُ: کچھڑ ملا ہوا پانی۔ حوض کا بقیہ گدلا پانی۔ ج رَنَابِقُ: (یہ رَنَابِقُ کا مقلوب ہے) الرُّوْقُ: چمک دمک۔ خوبصورتی۔ السَّرْنُوْقُ وَالرُّنُوْقُ وَالرُّنُوْقَاءُ: نہروں کا کچھڑ۔ سیلاب کے بہنے کی جگہ جبکہ پانی خشک ہو چکا ہو۔</p>	<p>أَرَنَفَ: الرَّجُلُ: تیز چلنا..... البَجِيْرُ: اونٹ کا سر ہلاتے ہوئے چلنا..... النَّاقَةُ بِأَذْنَيْهَا: اونٹنی کا تھکن کی وجہ سے کان ڈھیلا کرنا۔ السَّرَانِفُ: مِنْ مَحَلِّ شَيْءٍ: ہر ایک چیز کا کنارہ۔</p>	<p>الأَرَنْبَةُ: اَرَنْبُ: کا واحد۔ ناک کا پانہ۔ ”يَجْدَعُ فَلَانٌ أَرَنْبَةَ فَلَانٍ“ فلاں نے فلاں کی ناک کاٹ لی یعنی اہانت کی۔ ج اَرَانِبُ.</p>
<p>السَّرْنُوْقُ وَالرُّنُوْقُ وَالرُّنُوْقَاءُ: نہروں کا کچھڑ۔ سیلاب کے بہنے کی جگہ جبکہ پانی خشک ہو چکا ہو۔</p>	<p>السَّرَانِفَةُ: ناک کا کنارہ۔ کان کی نرم ہڈی کا کنارہ۔ چوڑا کا وہ حصہ جو ہنٹھے میں زمین سے لگے..... مِنَ الكُحْمِ: آستین کا کنارہ۔ تَوَرَّقَ وَأَرَانِفُ اور کہا جاتا ہے ”عَلَسُوا وَأَرَانِفُ“ الامتخام“ وہ ٹیلوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے۔ رَفَقَ: (ن) رَنَقًا وَرُنُوْقًا وَرَدِيقًا: (س) رَنَقًا. السَّمَاءُ: پانی کا گدلا ہونا۔ صفت (رَدِيقٌ وَرَدِيقٌ)</p>	<p>السَّرْنَجُ (مُؤَرَّبٌ وَمُؤَرَّبٌ): خرگوش کے بال ملا کر بنا ہوا۔ أَرْضٌ (مُؤَرَّبَةٌ وَمُؤَرَّبَةٌ وَمُؤَرَّبَةٌ): بہت خرگوش والی زمین۔ رَنَحَةٌ تَرِيْحًا: کمزور کرنا۔ الرِّيْحُ الْفُضْنُ: جھکانا۔ کہا جاتا ہے ”ضَرَبْتُهُ حَتَّى رَنَحْتُهُ“ میں نے اس کو مارا یہاں تک کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔</p>
<p>رَنَقَ: السَّمَاءُ: پانی کا گدلا کرنا۔ پانی صاف کرنا۔ الْقَوْمُ بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ ٹھہرنا۔ الطَّائِرُ: پرندہ کا بغیر اڑنے کے پر پھڑ پھڑانا۔ السُّوْمُ فِي عَيْنَيْهِ: آنکھوں میں نیند بھر آنا۔ جَسَاخُ الطَّائِرِ: بازو ٹوٹنے سے پرندہ کا گرتا۔ عَيْنَاهُ: بھوک وغیرہ سے نگاہ کا پست ہونا..... جَسْمُهُ او رَأْيُهُ: کمزور ہونا السَّفِينَةُ: کشتی کا اپنی جگہ پر گھومنا..... الرَّجُلُ: حیران ہونا۔ السَّفِينَةُ مِنْهُ: موت قریب ہونا اور کہا جاتا ہے</p>	<p>رَنَحَ: السَّمَاءُ: پانی کا گدلا کرنا۔ پانی صاف کرنا۔ رَدِيقٌ وَرَدِيقٌ</p>	<p>السَّرْنَجُ (مُؤَرَّبٌ وَمُؤَرَّبٌ): خرگوش کے بال ملا کر بنا ہوا۔ أَرْضٌ (مُؤَرَّبَةٌ وَمُؤَرَّبَةٌ وَمُؤَرَّبَةٌ): بہت خرگوش والی زمین۔ رَنَحَةٌ تَرِيْحًا: کمزور کرنا۔ الرِّيْحُ الْفُضْنُ: جھکانا۔ کہا جاتا ہے ”ضَرَبْتُهُ حَتَّى رَنَحْتُهُ“ میں نے اس کو مارا یہاں تک کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔</p>
<p>رَنَقَ: السَّمَاءُ: پانی کا گدلا کرنا۔ پانی صاف کرنا۔ الْقَوْمُ بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ ٹھہرنا۔ الطَّائِرُ: پرندہ کا بغیر اڑنے کے پر پھڑ پھڑانا۔ السُّوْمُ فِي عَيْنَيْهِ: آنکھوں میں نیند بھر آنا۔ جَسَاخُ الطَّائِرِ: بازو ٹوٹنے سے پرندہ کا گرتا۔ عَيْنَاهُ: بھوک وغیرہ سے نگاہ کا پست ہونا..... جَسْمُهُ او رَأْيُهُ: کمزور ہونا السَّفِينَةُ: کشتی کا اپنی جگہ پر گھومنا..... الرَّجُلُ: حیران ہونا۔ السَّفِينَةُ مِنْهُ: موت قریب ہونا اور کہا جاتا ہے</p>	<p>رَنَقَ: السَّمَاءُ: پانی کا گدلا کرنا۔ پانی صاف کرنا۔ رَدِيقٌ وَرَدِيقٌ</p>	<p>السَّرْنَجُ (مُؤَرَّبٌ وَمُؤَرَّبٌ): خرگوش کے بال ملا کر بنا ہوا۔ أَرْضٌ (مُؤَرَّبَةٌ وَمُؤَرَّبَةٌ وَمُؤَرَّبَةٌ): بہت خرگوش والی زمین۔ رَنَحَةٌ تَرِيْحًا: کمزور کرنا۔ الرِّيْحُ الْفُضْنُ: جھکانا۔ کہا جاتا ہے ”ضَرَبْتُهُ حَتَّى رَنَحْتُهُ“ میں نے اس کو مارا یہاں تک کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔</p>
<p>رَنَقَ: السَّمَاءُ: پانی کا گدلا کرنا۔ پانی صاف کرنا۔ الْقَوْمُ بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ ٹھہرنا۔ الطَّائِرُ: پرندہ کا بغیر اڑنے کے پر پھڑ پھڑانا۔ السُّوْمُ فِي عَيْنَيْهِ: آنکھوں میں نیند بھر آنا۔ جَسَاخُ الطَّائِرِ: بازو ٹوٹنے سے پرندہ کا گرتا۔ عَيْنَاهُ: بھوک وغیرہ سے نگاہ کا پست ہونا..... جَسْمُهُ او رَأْيُهُ: کمزور ہونا السَّفِينَةُ: کشتی کا اپنی جگہ پر گھومنا..... الرَّجُلُ: حیران ہونا۔ السَّفِينَةُ مِنْهُ: موت قریب ہونا اور کہا جاتا ہے</p>	<p>رَنَقَ: السَّمَاءُ: پانی کا گدلا کرنا۔ پانی صاف کرنا۔ رَدِيقٌ وَرَدِيقٌ</p>	<p>السَّرْنَجُ (مُؤَرَّبٌ وَمُؤَرَّبٌ): خرگوش کے بال ملا کر بنا ہوا۔ أَرْضٌ (مُؤَرَّبَةٌ وَمُؤَرَّبَةٌ وَمُؤَرَّبَةٌ): بہت خرگوش والی زمین۔ رَنَحَةٌ تَرِيْحًا: کمزور کرنا۔ الرِّيْحُ الْفُضْنُ: جھکانا۔ کہا جاتا ہے ”ضَرَبْتُهُ حَتَّى رَنَحْتُهُ“ میں نے اس کو مارا یہاں تک کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔</p>
<p>رَنَقَ: السَّمَاءُ: پانی کا گدلا کرنا۔ پانی صاف کرنا۔ الْقَوْمُ بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ ٹھہرنا۔ الطَّائِرُ: پرندہ کا بغیر اڑنے کے پر پھڑ پھڑانا۔ السُّوْمُ فِي عَيْنَيْهِ: آنکھوں میں نیند بھر آنا۔ جَسَاخُ الطَّائِرِ: بازو ٹوٹنے سے پرندہ کا گرتا۔ عَيْنَاهُ: بھوک وغیرہ سے نگاہ کا پست ہونا..... جَسْمُهُ او رَأْيُهُ: کمزور ہونا السَّفِينَةُ: کشتی کا اپنی جگہ پر گھومنا..... الرَّجُلُ: حیران ہونا۔ السَّفِينَةُ مِنْهُ: موت قریب ہونا اور کہا جاتا ہے</p>	<p>رَنَقَ: السَّمَاءُ: پانی کا گدلا کرنا۔ پانی صاف کرنا۔ رَدِيقٌ وَرَدِيقٌ</p>	<p>السَّرْنَجُ (مُؤَرَّبٌ وَمُؤَرَّبٌ): خرگوش کے بال ملا کر بنا ہوا۔ أَرْضٌ (مُؤَرَّبَةٌ وَمُؤَرَّبَةٌ وَمُؤَرَّبَةٌ): بہت خرگوش والی زمین۔ رَنَحَةٌ تَرِيْحًا: کمزور کرنا۔ الرِّيْحُ الْفُضْنُ: جھکانا۔ کہا جاتا ہے ”ضَرَبْتُهُ حَتَّى رَنَحْتُهُ“ میں نے اس کو مارا یہاں تک کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔</p>
<p>رَنَقَ: السَّمَاءُ: پانی کا گدلا کرنا۔ پانی صاف کرنا۔ الْقَوْمُ بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ ٹھہرنا۔ الطَّائِرُ: پرندہ کا بغیر اڑنے کے پر پھڑ پھڑانا۔ السُّوْمُ فِي عَيْنَيْهِ: آنکھوں میں نیند بھر آنا۔ جَسَاخُ الطَّائِرِ: بازو ٹوٹنے سے پرندہ کا گرتا۔ عَيْنَاهُ: بھوک وغیرہ سے نگاہ کا پست ہونا..... جَسْمُهُ او رَأْيُهُ: کمزور ہونا السَّفِينَةُ: کشتی کا اپنی جگہ پر گھومنا..... الرَّجُلُ: حیران ہونا۔ السَّفِينَةُ مِنْهُ: موت قریب ہونا اور کہا جاتا ہے</p>	<p>رَنَقَ: السَّمَاءُ: پانی کا گدلا کرنا۔ پانی صاف کرنا۔ رَدِيقٌ وَرَدِيقٌ</p>	<p>السَّرْنَجُ (مُؤَرَّبٌ وَمُؤَرَّبٌ): خرگوش کے بال ملا کر بنا ہوا۔ أَرْضٌ (مُؤَرَّبَةٌ وَمُؤَرَّبَةٌ وَمُؤَرَّبَةٌ): بہت خرگوش والی زمین۔ رَنَحَةٌ تَرِيْحًا: کمزور کرنا۔ الرِّيْحُ الْفُضْنُ: جھکانا۔ کہا جاتا ہے ”ضَرَبْتُهُ حَتَّى رَنَحْتُهُ“ میں نے اس کو مارا یہاں تک کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔</p>
<p>رَنَقَ: السَّمَاءُ: پانی کا گدلا کرنا۔ پانی صاف کرنا۔ الْقَوْمُ بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ ٹھہرنا۔ الطَّائِرُ: پرندہ کا بغیر اڑنے کے پر پھڑ پھڑانا۔ السُّوْمُ فِي عَيْنَيْهِ: آنکھوں میں نیند بھر آنا۔ جَسَاخُ الطَّائِرِ: بازو ٹوٹنے سے پرندہ کا گرتا۔ عَيْنَاهُ: بھوک وغیرہ سے نگاہ کا پست ہونا..... جَسْمُهُ او رَأْيُهُ: کمزور ہونا السَّفِينَةُ: کشتی کا اپنی جگہ پر گھومنا..... الرَّجُلُ: حیران ہونا۔ السَّفِينَةُ مِنْهُ: موت قریب ہونا اور کہا جاتا ہے</p>	<p>رَنَقَ: السَّمَاءُ: پانی کا گدلا کرنا۔ پانی صاف کرنا۔ رَدِيقٌ وَرَدِيقٌ</p>	<p>السَّرْنَجُ (مُؤَرَّبٌ وَمُؤَرَّبٌ): خرگوش کے بال ملا کر بنا ہوا۔ أَرْضٌ (مُؤَرَّبَةٌ وَمُؤَرَّبَةٌ وَمُؤَرَّبَةٌ): بہت خرگوش والی زمین۔ رَنَحَةٌ تَرِيْحًا: کمزور کرنا۔ الرِّيْحُ الْفُضْنُ: جھکانا۔ کہا جاتا ہے ”ضَرَبْتُهُ حَتَّى رَنَحْتُهُ“ میں نے اس کو مارا یہاں تک کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔</p>
<p>رَنَقَ: السَّمَاءُ: پانی کا گدلا کرنا۔ پانی صاف کرنا۔ الْقَوْمُ بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ ٹھہرنا۔ الطَّائِرُ: پرندہ کا بغیر اڑنے کے پر پھڑ پھڑانا۔ السُّوْمُ فِي عَيْنَيْهِ: آنکھوں میں نیند بھر آنا۔ جَسَاخُ الطَّائِرِ: بازو ٹوٹنے سے پرندہ کا گرتا۔ عَيْنَاهُ: بھوک وغیرہ سے نگاہ کا پست ہونا..... جَسْمُهُ او رَأْيُهُ: کمزور ہونا السَّفِينَةُ: کشتی کا اپنی جگہ پر گھومنا..... الرَّجُلُ: حیران ہونا۔ السَّفِينَةُ مِنْهُ: موت قریب ہونا اور کہا جاتا ہے</p>	<p>رَنَقَ: السَّمَاءُ: پانی کا گدلا کرنا۔ پانی صاف کرنا۔ رَدِيقٌ وَرَدِيقٌ</p>	<p>السَّرْنَجُ (مُؤَرَّبٌ وَمُؤَرَّبٌ): خرگوش کے بال ملا کر بنا ہوا۔ أَرْضٌ (مُؤَرَّبَةٌ وَمُؤَرَّبَةٌ وَمُؤَرَّبَةٌ): بہت خرگوش والی زمین۔ رَنَحَةٌ تَرِيْحًا: کمزور کرنا۔ الرِّيْحُ الْفُضْنُ: جھکانا۔ کہا جاتا ہے ”ضَرَبْتُهُ حَتَّى رَنَحْتُهُ“ میں نے اس کو مارا یہاں تک کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔</p>

کے بازوؤں کے اندر کی رگیں۔ واحد (زاهش وزاهشہ)

رَهَضٌ: (ف) رَهَضًا. الشئُ: سخت نچوڑنا..... الصَّيْدُ: شکار کوست کر دینا.....

ملا مت کرنا۔ جلدی کرانا..... السَّحَابُ: دیوار کا پہلا ردہ رکھنا..... الفرسُ: کھر کو زخمی کرنا۔

رَهَضٌ: (س) رُوِهَضٌ رَهَضًا. الفرسُ: گھوڑے کا زخمی کھروالا ہونا۔

أَرَهَضَ. السَّحَابُ: دیوار کا پہلا ردہ رکھنا..... الشئُ: بنیاد رکھنا۔ ثابت کرنا.....

بھلائی کا شمع بنانا..... الفرسُ: گھوڑے کے کھر کو زخمی کرنا۔

رَاهَضَ. غَرِيْمَةٌ: قرض دار کی گمرانی کرنا۔ تَرَاهَضَتِ. الصُّخُوْرُ: چٹانوں کا آپس میں جتنا۔

الرَّهَضُ. مِنَ السَّحَابِ: دیوار کا پہلا ردہ۔ مٹی جس سے دیوار بنائی جائے۔

الرَّهَاصُ: مٹی کا گارہ بنانے والا۔ الرَّهَضَةُ: گھوڑے کے سم کا زخم۔

الرَّهِيضُ. مِنَ الْغَيْلِ: سم کے زخم والا۔ خُفٌّ رَهِيضٌ: اڈنٹ کا کھر جس کو پتھر لگ گیا ہو۔

أَسَدٌ رَهِيضٌ: شیر جو اپنی جگہ سے لٹتا نہ ہو۔ الرَّوَاهِصُ. مِنَ الْحَبَاوَةِ: سم کو زخمی کرنے والا پتھر۔ مضبوط جہی ہوئی چٹانیں۔ واحد (زاهشہ)

الرَّهَضَةُ: مرتبہ۔ درجہ۔ رَجَ مَرَاهَصَ.

رَهَطٌ: (ف) رَهَطًا. اللَّقْمَةُ: بڑا لقمہ لینا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ يُرَهَطُ": وہ بہت کھاتا ہے۔

رَهَطٌ: بہت کھانا..... اللَّقْمَةُ: بڑا لقمہ لینا..... الرَّجُلُ: سواری کی پیٹھ پر جرم کے بیٹھنا۔ گھر سے نہ لگنا۔

إِرْتَهَطَ. الْقَوْمُ: اکٹھا ہونا۔ الرَّهْطُ وَالرَّهْطُ: آدمی کی قوم اور قبیلہ تین سے دس تک کا گروہ جس میں کوئی عورت نہ

ہو اور اس لفظ کا واحد نہیں۔ رَجَ أَرَهَطَ وَارَهَطَ وَرَهَطًا وَرَجَّ أَرَهَيْطًا وَأَرَهَيْطًا: اور رجب

رہط کی جانب عدد کی اضافت ہوتی ہے تو اس سے مراد اشخاص و افراد ہوتے ہیں جیسے

"عَشْرُونَ رَهَطًا" یعنی بیس شخص اور کہا جاتا ہے "نَحْنُ دُوْرُ رَهَطٍ" ہم اکٹھے ہیں۔ الرَّهْطُ: دشمن۔

الرَّهَاطُ: گھر کا سامان۔ الرَّهْطَةُ وَالرُّهْطَاءُ وَالرَّهْطَاءُ. مِنَ الْجُحُوْرَةِ الرَّهْطُوعِ: جنگلی چوہے کا وہ سوراخ جس سے وہ مٹی باہر نکالتا ہے۔ رَجَ رَهَاطِي.

الرَّهْطُوعُ: بہت کھانے والا۔ رَهَفَ: (ف) رَهْفًا. السَّيْفُ: تلوار کو باریک کرنا۔

رَهْفٌ: (ك) رَهَافَةٌ وَرَهْفًا: باریک و پتلا ہونا۔ صفت (رہیف)

أَرَهَفَ. السَّيْفُ: تلوار کی دھار پتلی کرنا۔ أَرَهَفَ بِالْكَلَامِ: فی البدیہہ کہنا۔ الرَّهِيْفُ: پتلا۔ پتلی کی ہوئی دھار والی چیز۔

الرَّهِيْفُ: مفتح۔ سَيْفٌ مَرَهْفٌ: تیز پتلی دھار کی ہوئی تلوار۔ فَرَسٌ مَرَهْفٌ: دبلے پیٹ اور قریب قریب پیلیوں والا گھوڑا۔

خَضِرٌ مَرَهْفٌ: پتلی کمر..... مَرَهْفٌ الْجِسْمُ: دبل پتلا۔ رَجُلٌ مَرَهْوْفٌ: البَدَنُ: پتلے جسم والا مرد۔

رَهَقٌ: (س) رَهَقًا: بے وقوف ہونا۔ صفت (رہقی): ہلکا ہونا۔ ظلم کرنا۔ برائیوں کا مرتکب ہونا۔ جھوٹ بولنا۔ جلدی کرنا.....

السَّفَرُ: قریب ہونا۔ وقت آنا۔ کہا جاتا ہے "رَهَقَتِ الْكَلَابُ الصَّيْدَ" یعنی کتے شکار پر جانچنے۔

رَهَقَهُ: برائی کی تہمت لگانا۔ رَاهَقَ. السَّغْلَامُ: جوانی کے قریب پہنچنا۔ صفت (مراہق): کہا جاتا ہے "صَلَّى الصَّلَاةَ مَرَاهِقًا" اس نے وقت ختم ہونے کے قریب نماز پڑھی۔

أَرَهَقَهُ. ظَلَمًا: جتلائے ظلم کرنا..... إِفْصًا:

گناہ پر برا سمجھنا کرنا..... عُسْرًا: تکلیف دینا۔

..... هَالِيْنَا: فوق الطاقہ: کام پر افسانہ۔..... الصَّلَاةُ: آخر وقت تک مؤخر کرنا۔

رَبَدًا أَنْ يُصَلِّيَ: نماز پڑھنے کی جلدی کرنا۔ کہا جاتا ہے "لَا تُرْهَقْنِي لِأَرْهَقَكَ اللَّئِيَّةُ" تو میرے اوپر سختی نہ ڈال اللہ تیرے اوپر سختی نہیں ڈالے گا۔

الرَّهَقُ: مہس۔ گناہ و تہمت۔ سبکی عقل۔ جہالت۔ فسوق الطاقہ: کام پر برا سمجھنا کرنا۔

الرَّهَقِيُّ: ایک قسم کی ڈور۔ کہا جاتا ہے "هُوَ يَفْدُو الرَّهَقِيَّ"۔ الرَّهَاقُ وَالرَّهَاقُ: مقدار۔ تقریباً۔ کہا جاتا ہے "تَحَانُّوا رَهَاقِيًّا": وہ لوگ سو کے قریب تھے۔

الرَّهِيْقُ: شراب۔ الرَّهِيْقَانُ: زعفران۔ الرَّهَقُ: قتل کرنے کے لئے گرفتار۔ جنگی میں ڈالا ہوا۔

الرَّهَقُ: مفتح۔ خفيف العقل و جامل۔ بدی و شرارت سے مہم۔ فیاض۔

رَهَكَ: (ف) رَهَكًا. الشئُ: باریک پینا۔ صفت مفعولی (رہیک و مرہوک) بالممكن: اقامت کرنا۔

إِرْتَهَكَ: چلنے میں ست ہونا۔ الرَّهَكَ: مہس۔ نیک کام۔ الرَّهَكَةُ: کمزوری۔

الرَّهَكَةُ وَالرَّهَكَةُ. مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الْإِبِلِ: کمزور و ناتواں۔

رَهَلٌ: (س) رَهَلًا: ڈھیلے اور پھولے ہوئے گوشت والا ہونا۔ صفت (رہل): کہا جاتا ہے "فَلَانَ فِيْهِ رَهَلٌ": فلاں میں آماں کے ساتھ ڈھیلے ہیں۔

رَهَلَهُ وَأَرَهَلَهُ. النَّوْمُ: نیند کا ست و ڈھیلہ کرنا۔

رَهَلٌ: ڈھیلہ ہونا۔

الرُّهْلُ: شبنم کے مشابہ پتلا پتلا بادل۔
 الْمُتْرَهْلُ: جَنْدُ الْأَطْبَاءِ: ڈھیلے بدن والا۔
 أَرْهَمَتِ: السَّمَاءُ: نرم بارش برسانا۔
 الرَّهْمَةُ: نرم لگاتار بارش۔ نَجْرُهُمْ
 وَرَهَامُ.
 الرَّهَامُ وَالرُّهُومُ: دہلی بکری۔
 الرَّهَامُ: غیر شکاری پرندہ۔ بڑی تعداد۔
 الْأَرْهَمُ: زیادہ فراخی و ارزانی والا۔
 الْمُرْهَمُ: نرم۔ نَضْرَاهُمْ.
 مَكَّانٌ (مَرْهُومٌ): وہ جگہ جہاں ہلکی بارش
 ہوئی ہو۔
 رَهْمَسٌ وَرَهْمَسَةٌ: باہم راز کی باتیں کرنا۔
 لَهُ: برائی کی تعریض کرنا۔
 رَهْنٌ: (ف) رَهْنًا. الشَّيْءُ فَلَانًا
 وَعِنْدَ فَلَانٍ: گرورکنا۔ الشَّيْءُ: ہمیشہ رہتا اور
 اس سے ہے "بِعِصْمَةِ اللَّهِ رَاهِنَةٌ": اللہ کی
 نعمت ہمیشہ رہنے والی ہے۔۔۔۔۔ الشَّيْءُ: ہمیشہ
 رکھنا۔ بِالْمَكَّانِ: اقامت کرنا (رُهُونًا)۔ دِیْلَا
 ہوتا۔ مَغْفَتٌ (رَاهِنٌ)
 رَاهِنَةٌ وَرَهَانَةٌ: عَلِيُّ الْخَيْلِ:
 دوڑانے کے لئے شرط لگانا۔۔۔۔۔ عَلِيُّ كَهْدًا:
 شرط ٹھہرانا۔
 أَرْهَسَهُ: الشَّيْءُ: کسی کے پاس گرورکنا۔
 أَرْهَنَ فَلَانًا: کمزور کرنا۔ جِسْمِي دِيْنًا: فِئِي
 السِّلْعَةِ: گران کرنا۔۔۔۔۔ لِضَيْفِهِ الطَّعَامُ
 وَالشَّرَابُ: مہمان کے لئے ہمیشہ کھانا پانی
 تیار رکھنا۔ أَرْهَنَ السَّمِيثَ الْقَبْرِ: میت کو قبر
 میں رکھنا۔
 تَرَاهِنَ: الْقَوْمُ: آپس میں شرط لگانا۔
 إِزْتَهِنَ: الشَّيْءُ مِنْهُ: گروری لینا۔۔۔۔۔ بِالْأَمْرِ:
 کسی معاملہ میں مقید ہونا۔
 اسْتَرْهَنَهُ: الشَّيْءُ: گروری طلب کرنا۔
 الرَّاهِنُ: قاتل۔ تیار۔ ہمیشہ رہنے والا۔ محکم و
 مضبوط۔ کہا جاتا ہے "هَذِهِ حُجَّةٌ رَاهِنَةٌ"
 یہ مضبوط دلیل ہے۔ ہمیشہ رہنے والی خوراک
 وغیرہ۔ لاغیر۔ دِیْلَا۔
 السَّرَاهِنَةُ: گھوڑے کی ناف اور اس کا

اردگرد۔
 الرَّهْنُ: بمص۔ گروری۔ کسی چیز کا روکنا۔
 گروری رکھی ہوئی چیز۔ نَجْرُ رَهْنٍ وَرُهُونٌ
 وَرَهْنٌ وَرُهْنٌ: کہا جاتا ہے "آئِسِي لَكَ
 رَهْنٌ بِكَذَا" میں تمہارے لئے اس کا ضامن
 ہوں۔
 هَذَا (رَهْنٌ) ضَالٌ: یہ مال کے برابر ہے۔
 شَيْءٌ مَرُهُونَةٌ: کئے لئے بولتے ہیں کہ وہ مال
 جو لیا جا رہا ہے اس کے یہ برابر ہے۔
 الرَّهْنَانُ: بمص۔ خَيْلُ الرَّهْنَانِ: شرط لگانے
 کے گھوڑے اور "هُمَا كَفَرْتَسِي رَهْنَانٌ" دو
 ہم رتبہ چیز کے بارے میں بطور مثال کے
 بولتے ہیں۔
 الرَّهْنِيْنُ: گروری رکھا ہوا۔ کسی چیز کے بدلے
 میں روکی ہوئی چیز۔ کہا جاتا ہے "أَنَا رَهْنِيْنٌ
 بِأَعْمَالِي" میں اپنے کاموں میں پھنسا ہوا
 ہوں۔
 الرَّهْنِيَّةُ: گروری رکھی ہوئی چیز۔ کہا جاتا ہے
 "أَنَا رَهْنِيَّةٌ بِكَذَا" میں اس میں پھنسا ہوا
 ہوں یا میں اس کا ضامن ہوں۔ و "كُحْلٌ
 نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهْنِيَّةٌ": ہر ایک نفس
 اپنے کمائے ہوئے کے ساتھ گروری ہے۔
 و "الْخَلْقُ رَهَانُ الْمَوْتِ" مخلوق موت کے
 ساتھ مجبوس ہے۔
 الْمُرْتَهِنُ: مَبْعُ: ہر وہ چیز جو کسی چیز کے
 بدلے میں روکی جائے۔ الْمُرْتَهِنُ بِالْأَمْرِ:
 کام میں پھنسا ہوا۔ کہا جاتا ہے "كُحْلٌ أَمْرِي
 بِالْمَوْتِ مُرْتَهِنٌ" یعنی ہر انسان موت کے
 ساتھ مقید ہے۔
 الْأُمُورُ (مِرْهُونَةٌ) بِأَوْقَاتِهَا: کام اپنے
 وقت پر واقع ہوتے ہیں۔
 الرَّهْنَانَجُ وَالرَّهْنَانَجُ: ملاحوں کے لئے
 بحری راستہ کا نقشہ (راہ نامہ کا معرب)
 رَهَا: (ن) رَهْوًا: نرمی کرنا۔ نرم چال
 چلنا۔ کہا جاتا ہے "جَمَاءُ تِ السَّخِيْلُ رَهْوًا"
 گھوڑے نرم چال سے آئے۔ و "أَزَّةٌ عَلِيٌّ
 نَفْسِكَ": اپنے اوپر نرمی کرو۔۔۔۔۔ السَّخْرُ:

دریا کا ساکن ہونا۔۔۔۔۔ يَسِينُ رَجْلَيْهِ: کھولنا
 الطَّائِرُ: پرندہ کا بازو پھیلاتا۔
 رَاهِيٌ مُرَاهِقَةٌ: الرَّجُلُ: قریب ہونا۔ اکٹھا
 ہونا۔ باہم حماقت کرنا۔
 أَرْهَى إِرْهَاءً: کشادہ جگہ پانا۔ رہو پرندہ کے
 کھانے پر مدد امت کرنا۔۔۔۔۔ لَهُمُ الطَّعَامُ:
 ہمیشہ تیار رکھنا۔۔۔۔۔ عَلِيٌّ نَفْسِيَهُ: نرمی کرنا۔ کہا
 جاتا ہے "أَزَّةٌ عَلِيٌّ نَفْسِكَ": اپنے اوپر
 نرمی کرو "أَرْهَى لَكَ الشَّيْءُ": تمہارے
 لئے یہ چیز ممکن ہے و "أَرْهِيْتُهُ لَكَ": میں
 نے تم کو اس پر قدرت دی۔
 تَرَاهِي. الْقَوْمُ: باہم نرمی برتنا۔
 إِزْتَهَيْ. الْقَوْمُ: باہم مشغول ہونا۔ رہیہ تیار
 کرنا۔ (دیکھئے لِنَقَرِ رَهِيَّةِ)
 الرَّهْوُ: سارس یا اس کے مشابہ ایک پرندہ نَجْرُ
 رَهَا (وَالرَّهْوَةُ): لوگوں کی جماعت۔ بلند
 یا پست جگہ۔ بِنُوْرُ رَهْوٍ: چوڑے منہ کا کنواں۔
 ثُبُوْبُ رَهْوٍ: باریک کپڑا۔ غَسَاةٌ رَهْوٍ:
 لگا تار لوث اور کہا جاتا ہے "النَّاسُ رَهْوٌ
 مَبْنِيْنُ الْمَدِيْنَةِ وَالْجَبَلِ": لوگ شہر اور پہاڑ
 کے درمیان لگا تار آ رہے ہیں۔
 الرَّهَاءُ: مِنَ الْأَمَّاكِنِ: کشادہ جگہ۔
 مِنْ كُحْلِ شَيْءٍ: ہر چیز کا ہموار حصہ۔
 الرَّاهِي. مِنَ الْغَيْشِ: آسودہ زندگی۔
 الرَّاهِيَّةُ. الرَّاهِي: کامونٹ۔ شہد کی مکھی۔
 الرَّهِيَّةُ: ایک قسم کا کھانا جو خوشکوبہا تھوں سے
 مل کر کوٹا جاتا ہے اور دودھ ڈال کر تیار کیا
 جاتا ہے۔
 السَّرْهَوَانُ: پست زمین۔ ترکی گھوڑے کو بھی
 رَهْوَانٌ کہتے ہیں جبکہ چلنے میں نرم پیٹھ کا ہو
 (معرب)
 الْأَرْهَاءُ: اطراف و جوانب۔
 الْمُرْهَسِيُّ. مِنَ الْخَيْلِ: تیز رفتار گھوڑا جو
 دیکھنے میں تیز نہ ہو اور مقابلہ کے وقت ہاتھ
 نہ لگے۔ نَجْرُ الرَّاهِي.
 رَهْوَكُ. الرَّجُلُ: چلنے میں ڈھیلے جوڑوں
 والا ہونا۔۔۔۔۔ الْقَوْمُ: مضطرب ہونا۔

الرزھوک: موٹا (بکری کا بچہ یا ہرن) شاب۔

زھوک: نازک بدن جوان۔

زھیا: کمزور اور ست ہونا۔ فاسد الرائے ہونا۔ محنت یا بڑھاپے کی وجہ سے کسی کی آنکھوں کا اندر گھس جانا..... السحاب: برسنے کے لئے تیار ہونا۔

ترھیا: مضطرب ہو کر حرکت کرنا..... فی أمرہ: کام میں کاہلی کرنا، کبھی ارادہ کرنا کبھی چھوڑنا..... السحاب: برسنے کے لئے تیار ہونا۔

زواترؤینا وقرؤنة: فی الأمر: کام کے انجام میں غور و فکر کرنا۔

الزوانیة والزویة: غور و فکر۔ الاونیاء: سوچ بچار غور و فکر کرنا۔

السراء: حروف تہجی کا ایک حرف۔ سمندر کا جھاگ۔ ایک درخت کا نام۔ واحد (زاءة)

زاب: (ن) زونا و زؤنبا۔ اللین: جمانا۔ صفت (زاب) کہا جاتا ہے "زاب دفة":

اس کی ہلاکت کا وقت قریب آ گیا..... السرجل: متحیر ہونا۔ جموت بولنا۔ عقل میں فتور ہونا مست ہونا۔ نیند بھوک یا اونگھ کی

وجہ سے متوالا جیسا ہونا۔ زؤبت: الذابنة: جانور کا ٹھکانا۔

زؤب وازاب: اللین: وہی جمانا۔ الزائب: فانا۔ جما ہوا دودھ دہی۔

الزائب من الامور: صاف معاملات جن میں کوئی شبہ نہ ہو۔ تیز مشیر امور (ضد)

السراب: اندازہ کہا جاتا ہے "هكذا زاب تکذا" یہ اس کے مقدار کا ہے۔

الزؤب: جما ہوا دودھ۔ مکھن نکلا ہوا دودھ۔ وہی۔ کہا جاتا ہے "ما عندہ شؤب ولا زؤب": اس کے پاس نہ تو شہد ہے نہ جما ہوا دودھ اور حدیث میں ہے "لا شؤب ولا زؤب فی البیع السراء" خرید و فروخت میں دھوکا فریب اور گڑبڑ نہیں ہونی چاہئے۔

الزؤبة والزؤبة: جانوں (یعنی چھاچھ جو دہی

جمانے کے لئے دودھ میں ڈالا جائے دودھ کا بقیہ)

السؤبة: حاجت اور اسی سے ہے "فلان لا یقوم بسؤبة أهلبه" فلاں اپنے لوگوں کی حاجت کے لئے مستعد نہیں۔ مدار زندگی۔ محتاجی۔ حیرانی۔ زیادہ پینے سے کسل مندی۔

السؤبة من اللحم: گوشت کا ٹکڑا..... من اللیل: رات کا ایک حصہ۔

السرجل: مرد کی عقل۔ تم کہتے ہو "هسو یحدثنی وأنا اذا ذاک غلام لیسث لہ زؤبة" وہ مجھ سے بات کر رہا تھا اور میں اس وقت ایسا لڑکا تھا جس کے لئے عقل نہ ہو۔

الازؤب: حیران۔ ست۔ اونگھ یا حکم گیری کی وجہ سے کسل مند۔

السؤبی: وہ لوگ جو چلنے کی وجہ سے ست ہو گئے ہوں۔ قوم زؤسی: ست طبیعت کے لوگ وہ لوگ جنہوں نے وہی پیا ہوا درست ہو گئے ہوں۔ واحد (زائب و زؤبان)

المزؤب: دودھ جمانے کا برتن۔ یسقاء (مزؤب): مشکیزہ جس میں دودھ جما یا گیا ہو۔

الروبیئة: ایک درخت کا نام۔ (Robinia) زاث: (ن) کزؤفا۔ القرس: لید کرنا۔

الزؤث: لید۔ ج آزؤث۔ السؤفة: روٹ کا واحد۔ ناک کے سرے کا کنارہ۔ کہا جاتا ہے "فلان یضرب بلسابہ زؤفة إنقیہ" فلاں اپنی ناک کے کنارے تک زبان کو لے جاتا ہے۔ کنایہ ہے زبان دراز ہونے سے۔ چوٹی۔

الضراث والمزؤث: لید کا خرچ۔ زاج: (ن) زؤجا و زؤاجا۔ الامر: جلدی ہونا..... السلقة: راج ہونا..... الذراہم: رواج پکڑنا..... الطغام: کھانا تیار ہونا۔ کہا جاتا ہے "أخصرنا نمازاج" جو کچھ میسر ہو اس کو ہمارے لئے حاضر کرو۔ زاجت الریح: ہوا کا نام معلوم سمت سے چلنا۔

زؤج: الشی وبہ: جلدی کرنا..... السلقة

والذراہم: راج کرنا..... فلان تکلامہ: مزین و مبہم کرنا۔

تسروؤج: حوض کے گرد اگر دگھومنا۔ صفت (زؤاج)

السؤجة: جلدی۔ زاج: (ن) کزؤاخا: شام کے وقت آنا یا جانا یا کام کرنا اور بغیر وقت کی تخصیص کے مطلقاً جانے کے معنی میں مستعمل ہے۔

(..... زؤاخا و زؤوخوا) القوم والنہم و عندہم: شام کے وقت کسی کے پاس جانا (مطلقاً) جانا۔

(..... زؤوخوا) القوم: تیز ہوا والا ہونا۔ زاج یریخ زینخا: الشی: بوجھوس کرنا۔

زاج یسراخ زینخا: القوم: تیز ہوا والا ہونا..... البیث: ہوا دار ہونا۔ کہا جاتا ہے "الفتح آتبات حتی یسراخ البیث" دروازہ کھولنا کہ گھر ہوا دار ہے..... السریخ الشی: ہوا لگنا۔ القوم الریح: ہوا میں داخل ہونا۔

زاج یسراخ زؤاخة: لیسمغروف: بھلائی کو خوشی سے کرنے کے لئے جلدی کرنا۔

یذة للامر: سبک ہونا..... السجؤ: نئے پتے نکالنا..... الشی: بوجھوس کرنا۔ کہا جاتا ہے "زاج یسراخ صغروفنا" اس نے تم سے بھلائی حاصل کی۔

زاج یسراخ زؤاخا و زؤاخا و زؤاخة و زؤاخة و زؤوؤخا و زؤیجیة: للامر: کسی کام کے لئے خوشی کے ساتھ متوجہ ہونا۔

زاحت سواخ رائحة: الابل: اونٹوں کا شام کے وقت واپس آنا۔ ریسخ: ہوا لگنا۔ صفت مزؤوخ فریخ۔

زؤخ یؤوخ زؤاخا: کشادہ ہونا۔ زؤخ: القوم: قوم کے پاس شام کے وقت آنا..... الزجل: آرام دینا۔

الابل: شام کے وقت بازہ میں اونٹوں کو واپس لانا..... بالجماعة: تراویح کی نماز پڑھانا..... قلبہ: کسی کے دل کو بیدار کر دینا۔

زؤخ: الشی وبہ: جلدی کرنا..... السلقة

..... الذُّهْنُ: میل کو خوشبودار بنانا۔

عَلَيْهِ بِالْمَرْوَةِ: پیکھا جملنا۔

أَرْاحُ إِزَاحَةٍ: الْقَوْمُ: ہوا میں داخل ہونا.....

ہ: آرام پہنچانا..... عَلِيُّ فَلَانٍ حَقَّهُ: واپس

کرنا..... الإِبْسَلُ: بازو کی طرف اُونٹوں کو

واپس لانا..... السُّعْرُوفُ: بھلائی حاصل

کرنا پانا..... الشُّبَى: بومحسوس کرنا..... المَاءُ

او اللَحْمُ: پانی یا گوشت کا بدبو دار ہونا۔

السَّرْجُلُ: سانس لینا۔ شام کے وقت میں

داخل ہونا۔ مرنا۔ کہا جاتا ہے۔ "أَرْاحُ

فَأَرْاحُ" اس نے مر کر آرام پہنچایا۔

أَرْوَحُ المَاءُ: پانی کا بدبو دار ہونا..... الشُّبَى

: بومحسوس کرنا..... عَلَيْهِ حَقَّهُ: واپس کرنا۔

زَاوَحُ: بَيْنَ العَمَلَيْنِ: باری باری مشغول

ہونا..... بَيْنَ رَجُلَيْنِ: باری باری ایک ایک

ٹانگ پر کھڑا ہونا۔

تَوَرَّخُ: شام کے وقت چلنا یا عمل کرنا۔

..... الْقَوْمُ: قوم کے پاس شام کے وقت جانا

..... الشُّجْرُ: نئے پتے نکالنا..... النَّبْتُ:

نباتات کا طویل ہونا..... المَاءُ: پانی کا

بُ دَار ہونا..... بِالْمَرْوَةِ: پیکھا بلانا۔

الشُّبَى: بھڑک دار خوشبودار ہونا۔

تَوَرَّوَحُ: الرَّجُلَانِ الاَمْرُ: باری باری کرنا

اور اسی سے یہ قول ہے "إِنَّ يَدَيْهِ تَتَوَرَّوَحَانِ

بِالسُّعْرُوفِ" اس کے دونوں ہاتھ باری

باری بھلائی کو کرتے ہیں۔

إِرْزَاحُ: خوش ہونا..... اللُّهُ لَهُ بِرَحْمَتِهِ:

مصیبت سے چھڑانا۔ کہا جاتا ہے "هُمَا

يَرْتَوِحَانِ عَمَلًا" وہ دونوں نوبت نوبت

کرتے ہیں۔

إِسْتِرَاحُ اسْتِرَاحَةٌ: آرام پانا۔ إِلَيْهِ: سکون

پانا۔

إِسْتِرَاحُ اسْتِرَاحًا: آرام پانا۔ الشُّبَى:

سوغھنا..... الغَضَنُ: ٹہنی کا ہوا سے بلنا.....

السُّيْدُ: شکار کا انسان کی بومحسوس کرنا.....

الشُّجْرُ: سرسبز کرنا۔

السَّرَاحُ: مِص - شَرَاب - خَوْشِي - نَشَاط - يَوْمٌ

رَاحٌ: سَخْتٌ ہوا کا دن۔

السَّرَاحَةُ: مِص - آرام - السَّرَاحُ: کا واحد۔

یعنی پھیلی۔ مِصن - کف دست - کہا جاتا ہے

"تَسْرُكُهُ عَلَيَّ النَفْيُ مِنَ الرَّاحَةِ" میں نے

اس کو ایسی حالت میں چھوڑا کہ اس کے پاس

کچھ نہیں تھا۔ کپڑے کی تہ - کہا جاتا ہے "إِطْلُو

السُّوْبَ عَلَيَّ زَاحِيَةً" کپڑے کو اس کی تہ پر

لیٹو۔ سَرَاخَاتُ: لَيْلَةٌ زَاحَةٌ: تیز ہوا والی

رات۔

السُّوْبُ: آرام - نِزَمٌ ہوا۔ انصاف جو شکایت

کرنے والے کو آرام پہنچائے - مدد۔

خَوْشِي - رَحْمَتٌ و مہربانی - يَوْمٌ زَوْحٌ: عمدہ و

خوشگوار دن۔ سہانا دن۔

السُّوْحَةُ: دِرَاحٌ کا اسم مرۃ۔ سَرَاخَاتُ:

لَيْلَةٌ زَوْحَةٌ: سہانی رات۔

السُّوْحُ: جان (مذکر مؤنث) نفس - کہا جاتا

ہے "هُوَ خَفِيْفُ السُّوْحِ": یعنی وہ لطیف و

پاکیزہ ہے۔ وحی - حکم خداوندی - امر الہی -

قرآن - پیغام خداوندی - جبرئیل - السُّوْحُ

الاعظَمُ: اللہ تعالیٰ - رُوْحُ السُّقْدَسِ:

جبرائیل کے نزدیک اقامت تلاش کا تیسرا

اقوم - السُّوْحُ الاَمِينُ: حضرت جبرئیل علیہ

السلام نسبت کے لئے (ذو حنیٰ) جِ اَرْوَاحِ

: اور حقد میں حکماء کے نزدیک معدنیات کی

ایک قسم - جیسے پارہ پر اطلاق ہوتا ہے - نیز

دواؤں کے ست و جواہر پر بولا جاتا ہے -

الارْوَاخُ العَجِيْبَةُ: شیطاں -

السُّوْحُ: دونوں ناگھوں کے درمیان کشادگی

وسعت -

السُّوْرَاحُ: مِص - شام یا زوال آفتاب سے

رات تک - اس کے مقابلہ میں صباخ ہے -

کہا جاتا ہے "خَرَجُوا بِرُوْحٍ مِنَ العِشِيِّ"

وہ شام کی ابتداء میں نکلے - و "افْعَلْ ذَالِكِ

فِي سَرَاخٍ وَرُوْحٍ" میں صبح شام اس کو

کرتا ہوں - (و السُّوْرِيْحَةُ و السُّوْرَاخَةُ

و السَّرَاخَةُ): خوشی جو یقین حاصل ہونے سے

پیدا ہو -

السُّوْرِيْحُ: ہوا (مؤنث) جِ اَرْوَاخِ و اَرْوَاخِ

و اَرْوَاخِ و اَرْوَاخِ: ہر وہ چیز جس کو ہوا

اچھی چیز - رحمت - مدد - غلبہ و قوت اور

ہوا میں چار ہیں -

السُّجْنُوبُ: دھنسی - اليَسْمَالُ: اُتْرِي -

الضَّبَاءُ: بَدْوَالِي - الذَّبُوْرُ: بچھوالی -

السُّوْرِيْحَةُ: ہوا - بُو -

السُّوْرِيْحَانُ: ہر ایک خوشبودار پودہ - معیشت و

روزی - فرزند - جِ زَيَاجِيْنِ -

السُّوْرِيْحَانَةُ: گلدرت -

السُّوْرِيْحُ: مِنَ الاَيَّامِ: تیز یا اچھی ہوا والا دن -

السَّرَاخَةُ: رَالِيْحٌ: کا مؤنث - بُو - جِ

رَالِيْحَاتُ و رُوْوَالِيْحُ: السُّوْرَالِيْحُ: شام کے

وقت کی بارش یا بادل - کہا جاتا ہے "مَسْأَلَةُ

سَارَاخَةٍ و لا زَاخِيْحَةٍ" یعنی اس کے پاس

موسلی میں سے کچھ نہیں -

الارْوَاخُ: ناگھوں کے درمیان کشادگی والا -

مؤنث رُوْحَاءُ سَرُوْحٌ (..... و الارْوِيْحُ):

کشادہ -

الارْوِيْحِي: کشادہ اخلاق والا -

الارْوِيْحِيَّةُ: وہ خصلت جو انسان کو افعال حمیدہ

اور فیاضی کرنے سے سرور کرتی ہے -

السُّوْرُوِيْحُ: ترو و بھیک جع - جس کے معنی مطلقاً

بٹھنے کے ہیں - پھر اس بیٹھنے کا اطلاق ہونے

لگا جو رمضان کی راتوں میں چار رکعت پڑھ

لینے کے بعد آرام حاصل کرنے کے لئے

بیٹھتے ہیں - پھر چار رکعت ہی کو ترو و بھیک کہنے

لگے اور ترو و بھیک کا اطلاق پوری تیس رکعت

نماز پر بھی ہوتا ہے جن کو رمضان میں پڑھتے

ہیں - السَّرَاخُ: روانہ ہونے یا واپس آنے

کی جگہ -

السَّرَاخُ: اُوْنْتُ یا گائے یا بکری کا بازو -

السُّوْرُوْحُ و السُّوْرِيْحُ: ہر وہ چیز جس کو ہوا

لگے - يَوْمٌ مَرُوْحٌ: اچھی ہوا والا دن -

السُّوْرُوْحُ و السُّوْرِيْحَةُ: پیکھا - جِ مَرَاوِيْحُ -

السُّوْرُوْحَةُ: بیابان - جِ مَرَاوِيْحُ -

السُّوْرُوْحُ: مِص - دُھْنٌ مَرُوْحٌ: خوشبودار

تیل۔

المُسْتَرَا ح: پاخانہ۔

رَاذَ يَرُوذًا رُوذًا وَرِيَاذًا. الشُّي: طلب کرنا
..... الاِرْضَى: قیام کے لئے چراگاہ و پانی
وغیرہ کی دیکھ بھال کرنا..... فَوَؤْمَةٌ مَرْغَى او
مَسْنُوْلًا: قوم کے لئے چراگاہ یا منزل کی تلاش
کرنے کی کوشش کرنا۔

رَاذَ يَرُوذُ رَوْدَانًا وَرِيَاذًا: کسی چیز کی تلاش
میں گھومنا اور آنا جانا۔ رَاذَتْ الْاِبْرَاهِيْمُ
اُوتُوْنًا كَمَا جَرَاغَاهُ فِيْ اَكْمِيْجِيْجَ اَنَّا جَانَا۔

رَاذَتْ رُوذًا وَرُوذَانًا. المَرْأَةُ: پڑوسیوں
کے ہاں اکثر آنا جانا..... الرِيْحُ: ہوا کا نرم
چلنا..... المَاشِيَّةُ: مویشیوں کا چرنا۔

رَاوُدَةٌ مَرَاوُدَةٌ وَرَوَاذًا: چاہنا۔ رَاوُدَةٌ عَنُ
وَعَلِي نَفْسِيْهِ: فریب دینا۔ برائی کی ترغیب
دینا۔ پھیلانا..... عَلِي كَمَا: ارادہ کرنا۔
رَوُدَةٌ: طلب و جستجو پر اُکسانا۔

اِرَاذَةٌ اِرَاذَةٌ: چاہنا۔ خِرَايْمُشُ كَرْنَا۔ رَاغِبٌ
هُوَ..... هُوَ عَلِي الْاَمْرُ: براہمیتہ کرنا۔

اَرُوذٌ اِرُوذًا وَمَرْوَاذًا وَمَرْوُوذًا وَرُوَيْذًا
وَرُوَيْذَاءً وَرُوَيْذِيَّةً. فِي السِّيْرِ: آہستگی سے
چلنا۔ نرم چلنا۔

اِرُوذًا اِرِيَاذًا. الشُّي: طلب کرنا۔

اِسْتَرَاذَ: فرما بیدار ہونا۔ لَاْمُرُ اللّٰهُ بِحَكْمِ اللّٰهِ
كِي جَانِبِ لَوْثِ اَنَّا اور جھک جانا۔
الذَّابَةُ: جانور کا چرنا..... الرِّجْلُ: چل پھر کر
روزی طلب کرنا۔

السَّرَابُ: فَارَاذَةٌ وَرُوذَادٌ وَرَايُوذُونَ:
چاسوس۔ وہ شخص جس کو لوگوں نے چارہ پانی
کی تلاش میں بھیجا ہو۔ چکی کا دستور اِسْتَرَاذَ
العَيْنُ: آنکھ کا تنکا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ رَايُوذٌ
الْوَسَادُ": وہ غم کے لاحق ہونے کی وجہ سے
غیر مطمئن ہے۔

الرَّادُ: بمعنی الرائد۔

الرِّيْدُ: طلب۔ تلاش۔

السَّرَاةُ وَالرَّايِذَةُ وَالرُّوَاذَةُ: پڑوسیوں
کے گھروں میں بہت پھرنے والی عورت۔

الرُّوْدُ: مِمَّسٌ - رِيْحٌ (رُوذُو رَايِذَةٌ): نرم
چلنے والی ہوا۔ کہا جاتا ہے "اِفْشِ عَلَي
الرُّوْدُ" یعنی آہستہ چلو۔

السَّرَاذُ: رَاذَارٌ۔ چکی جہازوں کی آمد رفت
اور ان کو روکنے کی معلومات دینے والا
آلہ۔

السَّرَايِيْكُ: السَّالِي: ایسے مذہب کی طرف نسبت
والا جو کہ مکمل سیاسی اصطلاحات کا مطالبہ
کرتے ہیں۔

رُوَيْدٌ. اَرُوْدٌ: کا مصدر مَصْرُفٌ ہے۔ کہا جاتا
ہے "رُوَيْدًا" یعنی آہستہ۔ "رُوَيْدًا" و "رُوَيْدًا"
رُوَيْدًا" و "رُوَيْدًا رُوَيْدًا": یعنی زید کو مہلت
دی۔ "وَسَاوُوا سِيْرًا رُوَيْدًا" و "سَاوُوا
رُوَيْدًا" یعنی وہ لوگ نرمی و آہستگی سے چلے۔

الارُوْدُ: کام میں آہستگی کرنے والا اور کہتے
ہیں "السَّهْرُ اَرُوْدٌ ذُوْغَيْرٍ" یعنی زمانہ اپنا
کام سکون کے ساتھ کرتا ہے جس کی خبر بھی
نہیں ہوتی۔ "الذَّهْرُ اَرُوْدٌ مُسْتَجِدٌّ": یعنی
زمانہ معاملات میں نرم ہے اور غالب ہے۔

السِّيْرُوْدُ: سرمہ کی سلائی۔ لگام کے حلقہ کا
لوہا۔ چرخنی کا ڈنڈا جس پر چرخنی گھومتی ہے۔
کھوئی ج مَرَاوِدُ۔

المَرَادُ وَالْمُسْتَرَادُ: چراگاہ میں اوتوں کے
آنے جانے کی جگہ مُسْتَرَادُ. الرِّجْلُ:
آدورفت کی جگہ۔

السَّرَاوِيْدُ: جانوروں کے باندھنے کی جگہ
میں آنے جانے والی۔

السَّرُوْنُدُ وَالرُّوَيْدُ وَالرَّوَايِدُ: ریوید چینی۔
ایک دو اکانام۔

رَاوُ: (ن) رُوْرَا. السَّجْرُ: پتھر اٹھا کر
وزن کا اندازہ کرنا..... الرِّجْلُ: آ زمانا.....
الديِنَارُ: دینار کا وزن معلوم کرنے کے لئے
تولنا۔

الارَاضِي: زمین کے پاس قیام کرنا اور اسے
قابل کاشت بنانا..... مَا عِنْدَهُ: طلب کرنا۔

چاہنا۔ صفت (رَائِي) ج رَاذَةٌ.
رُوْرٌ. السَّكْلَامُ او السَّرَائِي: آہستہ آہستہ غور

کرنا۔

رَاذَاهُ: آ زمانش کرنا۔

الرَّوَايِي: منسوب بہ شہر ہے۔

الرُّوَيْوِيَّةُ: بڑی چادر۔

الرَّوَايِي: معماروں کا سردار۔ ج رَاذَةٌ اور اس
کی اصل رَائِي ہے۔ مثل شَاكِبٌ وَشَاكِبٌ
کے۔

الريَاةُ: معماری۔

المَرَاوِي وَالرَّوَايِي: وزن۔ مقدار۔

المَرَاوِي: دونوں پستان۔

السَّرُوْرُ: السَّامَةُ: روز نامہ۔ کیلنڈر۔ جنتری
(کلمہ فارسی ہے روز اور نامہ سے مرکب
ہے)

رَاوِي سِرُوْسٌ وَرُوَيْسَا: منکبرانہ چلنا۔ بہت
کھانا..... السَّيْلُ الغُشَاءُ: سیلاب کا کوزا
کرکٹ بہالے جانا۔

اِسْتَرَاوِي: کھانا طلب کرنا۔

السَّرُوْسُ: مِمَّسٌ۔ مرد۔ کہا جاتا ہے "اِنَّهُ
رُوْسٌ سُوْوٌ" وہ برا آدمی ہے۔ عیب۔ بہت
کھانا۔

رَوَايِي. الاَوْدِيَّةُ: وادیوں کے بلند حصے۔

رَوَايِي. السَّحَابُ: اگلے پادل۔

رَاوِي يَرُوْشٌ وَرُوْشَا: بہت کھانا۔

..... هُوَ المَرَضُ: کمزور کرنا۔

السَّرَاوِي. مِمَّنِ الجَمَالِ او الرِّمَاحِ: کمزور

اُوتُوْشٌ يَابِيْزُهُ۔ يِيذَالِيْشُ: کا تخفیف ہے۔
مَوْتِشَرَاةٌ۔

الرُّوْشُ: بکی عقل۔

الارُوْشُ: بکی عقل والا۔ مَوْتِشَرُوْشَا۔

رَاوِي: (ن) (رُوْوَا: بے وقوفی کے بعد عقل
مند ہونا۔

رَاوِي يَرُوْشٌ وَرُوْشَا وَرِيَاةٌ وَرِيَاضَا.
المَهْرُ: پیچھے کے سودھانا۔ صفت (رَائِي) و
ج رَاوِي وَرُوْشَا وَرُوْشَا وَرِيَاةٌ وَرِيَاضَا
صفت مفعول (مَرُوْشُ): مَوْتِشَرُوْشَا۔

رُوْشُ. المَهْرُ: پیچھے کے خوب سدھانا
..... الرِّجْلُ: باغوں میں رہنا..... المَطْرُ

الأرض: باغ کی مانند بنا دینا۔

زَاوِضَةٌ: غلّی الأمر: کسی کو کسی کام پر پہلا پھسلا کر لگانا دینا۔

أَرْضٌ: إِرَاضَةٌ: سیراب ہونا۔

القَوْمُ: سیراب کرنا..... المَکَانُ: بکثرت باغات ہونا..... الثَّوْمَةُ الأَرْضُ: مرغزار بنانا۔ باغات بنانا..... الحَوْضُ: حوض کی تہ کا پانی سے ڈھلکنا۔

أَرْضٌ: المَکَانُ: بکثرت سرسبزی و باغات والی ہونا..... الأَرْضُ مِنَ السَّمَطِ: زمین کا بارش سے تر ہونا۔

تَسْرَاضٌ: القَوْمُ فِي الأَمْرِ: کسی معاملہ میں باہم مناظرہ کرنا..... فِي التَّبَعِ وَ الشَّرَاءِ: آپس میں خرید و فروخت میں جھگڑنا۔

إِرْضَاضٌ: المَهْمُورُ: پتھیر کے اسدھ جانا۔ کہا جاتا ہے "إِرْضَاضُ القَوَائِمِ فِي الصَّغْبَةِ لِلسَّاعِرِ" یعنی شاعر کی مشکل قوائی کی آمد ہوئی۔

إِسْتِرَاضٌ: اسْتِرَاضَةٌ: جگہ کی سطح کا پانی سے ڈھلکنا۔ کشادہ ہونا۔ النَفْسُ: خوش ہونا..... المَکَانُ: بکثرت باغات والی ہونا۔

الرَّوْضُ: مِص - باغ۔ وہ زمین جو مختلف قسم کے نباتات سے سرسبز ہو۔

السَّرْوِضَةُ: باغ۔ ج رَوْضٌ و رِيَاضٌ و رَوْضَاتٌ و رِيَضَانٌ: رَوْضَاتُ الجَنَاتِ: باغوں کے بہترین ٹکڑے۔ الرَّوْضَةُ: حوض کا بقیہ پانی۔ کہا جاتا ہے "فِي الحَوْضِ رَوْضَةٌ مِنَ المَاءِ" حوض میں تھوڑا پانی ہے جس نے زمین کو چھپا لیا ہے۔

الرِّيَضَةُ: الرَّوْضَةُ: میں ایک لغت۔

السَّرِيضَةُ: مِص - جسمانی ورزش۔ بری حالت کو اچھی حالت سے بدلنا۔ اخلاقِ نفسانی کی تہذیب۔ عبادت اور حقائقِ ایمانی میں غور و فکر کرنا۔

العِلْمُ الرِّيَاضِي وَعِلْمُ الرِّيَاضِيَّاتِ: علم حساب۔ الجبر اوجیومیٹری وغیرہ علوم۔

السَّرِيضُ: وہ جانور جس کو سدھایا جانا شروع کیا گیا ہو۔ مذکر و مؤنث اس میں برابر ہیں۔ "أَمْرٌ رِيضٌ" غیر محکم کام۔

الرِّيَضَةُ: باغ۔

المَرَاضُ: نرم نشیبی زمین میں سخت جگہ جو پانی کو روک لے۔ ج مَرِيضٌ وَمَرَاضَاتُ.

أَرْضٌ (مُسْتَرَوِضَةٌ): عمدہ نباتات اگانے والی زمین۔ نَبَاتٌ مُسْتَرَوِضٌ: نباتات جو بڑھنے اور لمبے ہونے میں انتہا کو پہنچ گئی ہو۔

رَاطٌ يَسْرُوطٌ وَيَسْرِيظُ رَوطًا وَرِيظًا. بِالسَّمَكَانِ: پناہ ڈھونڈنے والے کی مانند ہونا۔

رَاعٌ يَسْرُوعُ رَوْعًا وَرَوْعًا. جِنَّةٌ: گھبرانا۔ صفت (رَالِيعٌ وَرَوْعٌ)..... فِي يَدَيْ كَذَا: فائدہ دینا۔ رَاعَةٌ الأَمْرُ: گھبرا دینا۔ تعجب میں ڈالنا۔

رَاعٌ يَسْرُوعُ وَيَسْرِيغُ رُوعًا: لوٹنا۔ واپس ہونا۔

رِيغٌ: فَلَانٌ: گھبرانا۔ ڈرنا۔

أَرَاعَةٌ وَرَوْعَةٌ: گھبرا دینا۔ ڈرانا۔ تعجب میں ڈالنا۔

رَوْعٌ (س) رَوْعًا: أَرْوَعٌ: (دیکھئے لفظاً أَرْوَعٌ)

أَرْوَعٌ إِرْوَاعًا: الرِّاعِي الغَنَمِ: چرواہے کا بکریوں کو ڈانٹنا۔

إِرْتَاعٌ وَتَسْرُوعٌ. جِنَّةٌ وَلَمَّةٌ: ڈرنا۔ اِرْتَاعٌ لِلخَبَرِ: خبر کی وجہ سے خوش ہونا۔

الرَّوْعُ: مِص - خوف۔ ڈر۔ لڑائی۔

الرَّوْعَةُ: ڈر۔ حسن و جمال کا حصہ۔

السَّرُوعُ: دل کا سیاہ نقطہ اور بقول بعض دل میں ڈر کی جگہ۔ ذہن۔ عقل۔ کہا جاتا ہے "أَفْرِغْ رَوْعَكَ" اپنے دل کو مطمئن رکھو۔

الرَّوْعُ: أَرْوَعٌ: کا اسم (دیکھئے لفظاً أَرْوَعٌ) الأَرْوَعُ: جس یا بہادری وغیرہ سے تعجب میں ڈالنے والا۔ ہوشیار۔ ذکی۔ ج رَوْعٌ و اِرْوَاعٌ: مؤنث رَوْعَاءٌ. قَلْبٌ أَرْوَعٌ: جلدی گھبرا جانے والا دل۔

فَلَانٌ: (رَوْاعٌ) القَلْبُ: ہوشیار۔ ذکی۔ السَّرَائِعُ: فا۔ حسن یا بہادری وغیرہ سے تعجب میں ڈالنے والا۔ ج رَائِسُونٌ وَرَوْعٌ: مؤنث رَابِعَةٌ ج رَوَاعٌ وَرَوْعٌ. تَخْلَامٌ رَائِعٌ: خوشگوار کلام۔

رَابِعَةٌ: الشَّيْبُ: بڑھاپے کی ابتداء میں رَابِعَةُ النِّهَارِ أو الصُّحَى: دن یا چاشت کے وقت کا بڑا حصہ۔

السَّرُوعُ: خوفزدہ۔ درست الہام پانے والا۔

رَاعٌ: (ن) رَوْعًا وَرَوْعًا. الصَّيْدُ: شکار کا ادھر ادھر جانا..... السَّرَجْلُ عَنِ الطَّرِيقِ: مکر و فریب کے راستہ سے کتر اکترا کر چلنا۔

إِلَى كَذَا: چپکے سے کسی جانب مائل ہو جانا۔..... عَمَلِيَهُ بِالضَّرْبِ: مارنے کے لئے ٹوٹ پڑنا۔

رَوْعٌ: القَلْمَةُ فِي الدَّمِ: لقمہ کو اچھی طرح چکھنا یا اس میں الٹ پلٹ کر تر کرنا۔

رَاوَعَهُ سُرَاوَعَةً: کشتی لڑنا۔ فریب دینا۔

رَاوَعَهُ عَلَي الأَمْرِ: پھسلانا اور غلانا۔

رَاوَعُ القَوْمِ: مکر و فریب سے ایک دوسرے کو طلب کرنا۔

أَرَاعَهُ إِرَاعَةً وَإِرْتَاعَهُ إِرْتِاعًا: مکر و فریب سے طلب کرنا۔ کہا جاتا ہے "مَنَازِلُتْ أُرِيغُ حَاسِجَةً لِي" میں ہمیشہ اپنی حاجت کو طلب کرتا رہا اور کہا جاتا ہے "إِرْتَاعُ العُقَابِ الصَّيْدَ" عقاب شکار کا پیچھا کرنے میں ادھر ادھر جاتا رہا۔ أَرَاعَهُ عَلَي الأمرِ وَعَنْ أَمْرٍ: پھسلا بہلا کر طلب کرنا..... أَرَاغُ السَّرَجْلُ: دھوکا دینا۔

تَرَوَعٌ: الجَمَارُ: گدھے کا خاک میں لوٹنا۔ تَرَاوَعًا: ایک دوسرے کو فریب دینا۔ باہم کشتی کرنا۔

الرَّوَاعُ: فا۔ طَرِيقٌ رَائِعٌ: کج راستہ۔ الرَّوَاعُ وَالرَّوَيْغَةُ: مکر و حیلہ۔

السَّرَوَاعُ: بہت فریب دکر کرنے والا۔ لوسری۔ کہا جاتا ہے "هُوَ تَعَلَّبَ رَوْاعًا" و

هُمُ نَسَائِبُ رُوَاغَةٍ“ وہ یا وہ لوگ فریب دینے والی لوزی کی مانند ہیں۔

الرِّيَاغُ: سرسبزگی۔
رَأْفٌ يَرَأْفٌ: رَأْفٌ يَرَأْفٌ: میں ایک لغت ہے۔

الرُّوْفُ: سکونِ اطمینان۔
الرُّوْفَةُ: رحمت۔

رَأْفٌ يَرُوْفٌ رُوْفًا: صاف ہونا..... عَلَيْهِ: فضیلت و خوبی میں بڑھ جانا۔

رَأْفُهُ وَرُوْفًا وَرُوْفَانًا: الشُّيُ: تعجب میں ڈالنا۔ پسند آنا۔ خوش کرنا۔

رُوْقٌ يَرُوْقِي رُوْقًا: اوپر کے دولہے دانتوں والا ہونا۔ صفت (أرُوْق): مَوْنُثٌ رُوْقَاءُ ج رُوْقٌ.

رُوْقٌ: الشُّرَابُ: صاف کرنا۔ رُوْقٌ بِصَاعَتِهِ: سامانِ بیچ کر عمدہ سامان خریدنا (رُوْقٌ وَأرُوْقٌ أَرُوْقًا) السَّيْلُ: تاریکی پھیلانا۔

رُوْقِي: النَّبِيْتُ: سائبان بنایا جانا۔

رَأْوَقَةٌ مَرَأْوَقَةٌ: کسی کے برآمدہ کے مقابل برآمدہ بنانا۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ مَرَأْوَقِي“ اس کا برآمدہ میرے برآمدہ کے مقابل ہے۔

أَرَأَقٌ أَرَأَقَةٌ السَّمَاءُ: بہانا..... دَمَهُ: خون گراتا۔ کنایہ قتل کرنے سے۔

الرَّائِقُ: فَا-ج- رُوْقٌ وَرُوْقَةٌ.

السَّرُوْقُ: بَمَس- سِيَنگ..... مِنْ النَّبِيْتُ: سائبان برآمدہ..... مِنْ الشَّبَابِ: جوانی کی رونق و ابتداء..... مِنْ السَّخِيْلِ: خوبصورت گھوڑا..... مِنْ اللَّيْلِ: رات کا ایک حصہ..... مِنَ الْمَاءِ وَنَحْوَهُ: صاف۔ رُوْقٌ

السَّفَرَسُ: نیزہ جو گھوڑے کے کانوں کے درمیان میں رکھا ہوا ہو۔ اس صورت میں گھوڑے کو ”أرُوْق“ کہتے ہیں۔ السَّرُوْقُ:

خالص محبت۔ چیز کی زیادتی۔ بارش۔ عمر۔ پردہ۔ بڑا خیمہ۔ جماعت۔ کہا جاتا ہے

”ذَاهِيَةٌ ذَاتٌ رُوْقِيْنِي“ یعنی بڑی مصیبت و ”رَضِي بِأرُوْقِهِ عَلَيَّ الذَّابِيَةُ“ یعنی وہ سوار

ہو و ”الْقِي بِأرُوْقِهِ عَنِ الذَّابِيَةُ“ یعنی وہ دہ سے اتر پڑا۔ و ”الْقِي أرُوْقَهُ“: یعنی وہ تیز دوڑا۔ نیز سبحی اطمینان کے ساتھ

اقامت کی۔ و ”صَرَبَ رُوْقُهُ بِمَنْزِلٍ كَذَا“: وہ فلاں منزل پر اتر اور اس نے خیمہ لگایا۔

ہو و ”الْقِي بِأرُوْقِهِ عَنِ الذَّابِيَةُ“: یعنی وہ دہ سے اتر پڑا۔ و ”الْقِي أرُوْقَهُ“: یعنی وہ تیز دوڑا۔ نیز سبحی اطمینان کے ساتھ

اقامت کی۔ و ”صَرَبَ رُوْقُهُ بِمَنْزِلٍ كَذَا“: وہ فلاں منزل پر اتر اور اس نے خیمہ لگایا۔

”وَالْقِي عَلَيكَ أرُوْقُهُ وَشَرَابِيَهُ“: اس موقع پر بولتے ہیں جب یہ کہنا ہو کہ تم فلاں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ و ”الْقِي السَّخَابَةُ أرُوْقَاهَا“ بادل نے اپنا دھانہ کھول

دیا۔ السَّرُوْقُ وَالسَّرُوْقُ: برآمدہ۔ سائبان۔ چھت سے لے کر نیچے تک کا پردہ۔ جِ أرُوْقَةٌ رُوَائِقَاتٌ وَرُوْقِي. رُوَائِقِي السَّيْنِ: ابرو۔ رُوَائِقِي اللَّيْلِ: رات کا ابتدائی حصہ۔

السَّرَاوُوقُ: چھنا۔ برتن جس میں شراب صاف کی جائے۔ پیالہ۔

رَيْقِي: الشَّبَابُ: جوانی کی رونق و ابتداء اور کہا جاتا ہے ”كُنْتُ فِي رَيْقِي زَمَانِي“ میں اپنے زمانہ کی ابتداء میں تھا۔ و ”رَيْقِي كَمَلِ شَيْ“: ہر چیز کا افضل حصہ۔

السَّرُوْقُ: اوپر کے دو دانتوں کا لہبا ہونا (اور یہ عیب ہے)

الرُّوْفَةُ: بہترین حسن و جمال۔ السَّرُوْفَةُ: رائق کی جمع۔ بہتر لوگ۔ کہا جاتا ہے ”عَلِمْنَا رُوْفَةً“ خوبصورت لڑکے اور

بھی مذکر مَوْنُثٌ واحد اور جمع کے لئے مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے ”غَلَامٌ رُوْفَةٌ جَارِيَةٌ رُوْفَةٌ وَجَوَارِيَةٌ رُوْفَةٌ“

السَّرُوْقُ: سائبان پر وہ لٹکا ہوا مکان۔ الرُّوْكَةُ وَالرُّوْكَاءُ: نرالو کی آواز۔ رُوْلٌ. القُرْسُ: گھوڑے کی رال بہنا۔ رُوْلٌ الخَيْرُ: گھی سے روئی کو اچھی طرح تر کرنا۔

الرُّوَالُ: گھوڑے کی رال۔ جِ رُوَائِيْلُ. الجِرْوَالُ: بہت رال والا۔

رَامٌ: (ن) رُوْمًا وَمَرَامًا. الشُّيُ: ارادہ کرنا۔ صفت (رَائِيْمٌ) جِ رُوْمٌ وَرُوْمًا. رُوْمٌ: بھرنانا..... فُلَانًا وَبِهِ: خواہش دلانا..... زَائِيَةٌ: ایک چیز کے بعد ایک چیز کا ارادہ کرنا۔ قَرُوْمٌ بِهِ: ٹھٹھا کرنا۔

الرَّوَامُ: ایک درخت کا نام۔ السَّرَامَةُ: جوڑ۔ ایک دیہاتی موضع کا نام۔ اشعار میں اکثر اس کا استعمال تشبیہ سے ہوتا ہے۔

الرُّوْمُ وَالرُّوْمُ: کان کی او۔ السَّرُوْمُ وَالْأَرُوْمُ: بحر متوسط کے شمال کے رہنے والے لوگ۔ واحد (رُوْمِيٌّ): نصرانیوں کا ایک گروہ۔ يَسْحَرُ السَّرُوْمُ: بحر متوسط جس کو بحر ابیض بھی کہتے ہیں۔

رُوْمَةٌ وَرُوْمِيَّةٌ: قدیم اور مشہور شہر کا نام جو اہلی کا دارالسلطنت ہے۔ نسبت کے لئے رُوْمَانِيٌّ.

الرُّوْمِيٌّ: خالی کشتی کا بادبان۔ السَّرُوْمَةُ: سریش جس سے تیر کا پر جوڑا جاتا ہے۔

السَّرُوْمِيَّةُ أَوْ الرُّوْمَانِيَّةُ: ادبی نظریہ جس میں شعور اور خیال عقل پر غالب ہوتا ہے اور انفرادی تسلط ہوتا ہے۔

السَّرَامُ: مقصد۔ مطلب۔ جِ مَرَامَاتٌ. زَانٌ يَرُوْمُنُ رُوْمًا. الأَمْرُ: سخت ہونا۔ زَانَتُ اللَّيْلَةِ: سخت خوفناک ہونا۔

الرُّوْمُنُ: سختی۔ جِ رُوْمُونٌ. رُوْمَةٌ: الشُّيُ: چیز کا بڑا حصہ۔ چیز کی سختی۔ کہا جاتا ہے ”كَشَفَ اللَّيْلُ عَنْكَ رُوْمَتَهُ هَذَا الأَمْرُ“ اللہ تعالیٰ تم سے اس معاملہ کی سختی کو دور کریں۔

الأَرُوْمَانُ: سخت۔ دشوار (الأَرُوْمَانُ وَالْأَرُوْمَانِيَّةُ): ہر چیز کی سختی (مثلاً سردی) گرمی خوشی غمی شور وغیرہ کی) مَوْنُثٌ أَرُوْمَانَةٌ وَأَرُوْمَانِيَّةٌ. مَرُوْمٌ: بہ۔ مغلوب۔

السَّرُوْمُ وَالرُّوْمُ وَالرُّوْمَانُ: ایک پودا جس


اس نے اس کے ساتھ بدگمانی کی اور تہمت کا یقین نہیں کیا۔	سیراب کرنے والا پانی اور ایہ ہی کہا جاتا ہے "تَحْمَسُ زَوْيَةَ الرَّوِيّ" بخوبی بارش والا بادل۔ تندرست و صحیح العقل۔ اٹنے والا۔ قافیہ کا حرف۔	کے پتے چوڑے ہوتے ہیں۔ طبی فائدہ معدہ کو طاقت اور اخراج مادہ ہے۔
تَرَيَّبَ تَرَيَّبًا. مِنْهُ خَوْفٌ كَرْنَا وَرْنَا..... بہ: کسی سے کوئی شک کی چیز دیکھنا۔	الزَّوِيَّةُ: السَّرْوِيُّ: کامونٹ۔ امور میں غور و فکر۔ حاجت۔ قرض وغیرہ کا بقیہ۔	رَاةٌ (ن) رَوْهَا وَرَوْهَا. الْمَاءُ: پانی کا سطح زمین پر لہر مارتا۔
إِزْتَابَ إِزْتَابًا. مِنَ الشَّيْءِ: شک کرنا بفلان: تہمت لگانا۔	السَّرْيَانُ: سیراب۔ سرسبز پنبی وغیرہ۔ مَوْنَتٌ زَيْنًا: ج رِوَاءٌ. وَجْهَةُ زَيْنَانٍ: پند گوشت چہرہ اور کہا جاتا ہے "فَلَانٌ زَيْنَانٌ مِنَ الْعِلْمِ وَهُمْ رِوَاءٌ مِنْهُ" فلاں یا وہ لوگ بہت علم والے ہیں۔	رَوِيٌّ (ض) رِوَايَةٌ. السَّخِيْبَةُ: نقل کرنا۔ بیان کرنا۔ صفت رَاوِيٌّ: ج رِوَالِيَةٌ وَرَاوُونَ..... السَّخِيْبَةُ: رسی پٹنا..... السَّرْحَلُ: آؤٹ پر رسی سے کچا وہ باندھنا..... السَّقْوَمُ: قوم کے لئے پانی لانا۔
إِسْتَرَابَ اسْتِرَابَةً: شک میں پڑنا..... بہ: کسی سے کوئی شک کی چیز دیکھنا۔	السَّرْوَاءُ: ج أَرْوِيَّةٌ (الْمَجْرُوِيَّةُ) ج مَسْرَاوِيٌّ وَمَسْرَاوِيٌّ: جانور پر بوجھ باندھنے کی رسی۔ السَّرْوَاءُ: خوشگوار پانی۔ سیراب کرنے والا۔ بہت پانی۔	رَوِيٌّ (س) رِيًّا وَرِيًّا وَرِوِيًّا. مِنَ الْمَاءِ: سیراب ہونا۔ صفت (زَيْنَانٍ): مَوْنَتٌ زَيْنًا. ج رِوَاءٌ..... الشَّجَرُ: سرسبز ہونا۔
الزَّوِيَّةُ: تہمت۔ شک۔ حاجت۔ زَيْبُ الْعَيْنُونِ: گردش زمانہ۔	السَّرْوَاءُ: ج أَرْوِيَّةٌ (الْمَجْرُوِيَّةُ) ج مَسْرَاوِيٌّ وَمَسْرَاوِيٌّ: جانور پر بوجھ باندھنے کی رسی۔ السَّرْوَاءُ: خوشگوار پانی۔ سیراب کرنے والا۔ بہت پانی۔	رَوِيٌّ (س) رِيًّا وَرِيًّا وَرِوِيًّا. مِنَ الْمَاءِ: سیراب ہونا۔ صفت (زَيْنَانٍ): مَوْنَتٌ زَيْنًا. ج رِوَاءٌ..... الشَّجَرُ: سرسبز ہونا۔
الرَّوِيَّةُ: شک و تہمت۔ بے قراری۔ بے کلی۔ ج زَوِيَّبٌ. أَمْرٌ (زَيْبًا): ڈرانے والا معاملہ۔	السَّرْوَاءُ: ج أَرْوِيَّةٌ (الْمَجْرُوِيَّةُ) ج مَسْرَاوِيٌّ وَمَسْرَاوِيٌّ: جانور پر بوجھ باندھنے کی رسی۔ السَّرْوَاءُ: خوشگوار پانی۔ سیراب کرنے والا۔ بہت پانی۔	رَوِيٌّ (س) رِيًّا وَرِيًّا وَرِوِيًّا. مِنَ الْمَاءِ: سیراب ہونا۔ صفت (زَيْنَانٍ): مَوْنَتٌ زَيْنًا. ج رِوَاءٌ..... الشَّجَرُ: سرسبز ہونا۔
رَاتٌ يَرِيْبُ زَيْنًا وَتَرِيْبُ: تاخیر کرنا دیر کرنا۔	السَّرْوَاءُ: ج أَرْوِيَّةٌ (الْمَجْرُوِيَّةُ) ج مَسْرَاوِيٌّ وَمَسْرَاوِيٌّ: جانور پر بوجھ باندھنے کی رسی۔ السَّرْوَاءُ: خوشگوار پانی۔ سیراب کرنے والا۔ بہت پانی۔	رَوِيٌّ (س) رِيًّا وَرِيًّا وَرِوِيًّا. مِنَ الْمَاءِ: سیراب ہونا۔ صفت (زَيْنَانٍ): مَوْنَتٌ زَيْنًا. ج رِوَاءٌ..... الشَّجَرُ: سرسبز ہونا۔
رَيْتٌ: جھکتا۔ کہا جاتا ہے "رَيْتٌ عَشْمَانٌ عَلَيْهِ" یعنی جس معاملہ میں وہ تھا اس میں کوتاہی کی..... الشَّيْءُ: نرم کرنا۔	السَّرْوَاءُ: ج أَرْوِيَّةٌ (الْمَجْرُوِيَّةُ) ج مَسْرَاوِيٌّ وَمَسْرَاوِيٌّ: جانور پر بوجھ باندھنے کی رسی۔ السَّرْوَاءُ: خوشگوار پانی۔ سیراب کرنے والا۔ بہت پانی۔	رَوِيٌّ (س) رِيًّا وَرِيًّا وَرِوِيًّا. مِنَ الْمَاءِ: سیراب ہونا۔ صفت (زَيْنَانٍ): مَوْنَتٌ زَيْنًا. ج رِوَاءٌ..... الشَّجَرُ: سرسبز ہونا۔
أَزَاةٌ إِزَاةً: دیر کرنا۔	السَّرْوَاءُ: ج أَرْوِيَّةٌ (الْمَجْرُوِيَّةُ) ج مَسْرَاوِيٌّ وَمَسْرَاوِيٌّ: جانور پر بوجھ باندھنے کی رسی۔ السَّرْوَاءُ: خوشگوار پانی۔ سیراب کرنے والا۔ بہت پانی۔	رَوِيٌّ (س) رِيًّا وَرِيًّا وَرِوِيًّا. مِنَ الْمَاءِ: سیراب ہونا۔ صفت (زَيْنَانٍ): مَوْنَتٌ زَيْنًا. ج رِوَاءٌ..... الشَّجَرُ: سرسبز ہونا۔
إِسْتَرَابَهُ اسْتِرَابَةً: دیر کرنے والا پانا۔ دیر کرنے والا جھٹنا۔	السَّرْوَاءُ: ج أَرْوِيَّةٌ (الْمَجْرُوِيَّةُ) ج مَسْرَاوِيٌّ وَمَسْرَاوِيٌّ: جانور پر بوجھ باندھنے کی رسی۔ السَّرْوَاءُ: خوشگوار پانی۔ سیراب کرنے والا۔ بہت پانی۔	رَوِيٌّ (س) رِيًّا وَرِيًّا وَرِوِيًّا. مِنَ الْمَاءِ: سیراب ہونا۔ صفت (زَيْنَانٍ): مَوْنَتٌ زَيْنًا. ج رِوَاءٌ..... الشَّجَرُ: سرسبز ہونا۔
الرَّيْتُ: مقدار۔ مہلت۔ کہا جاتا ہے "وَقَفَ (زَيْنَمَا) صَلْبِنًا" جب تک ہم نے نماز پڑھی وہ ٹھہرا ہوا..... تَمَّا قَعَدْتُ عِنْدَهُ الْإِرْيْتُ أَحْقِدُ شَيْعِي": میں اس کے پاس تہہ باندھنے کی مقدار بیٹھا۔ یہاں لفظ ریٹ بغیر ما: کے اور فعل مضارع بغیر ان کے استعمال ہے جیسے کہ يُسْرِيْدُ يَفْعَلُ بجائے يُسْرِيْدُ أَنْ يَفْعَلُ گئے ہے۔	السَّرْوَاءُ: ج أَرْوِيَّةٌ (الْمَجْرُوِيَّةُ) ج مَسْرَاوِيٌّ وَمَسْرَاوِيٌّ: جانور پر بوجھ باندھنے کی رسی۔ السَّرْوَاءُ: خوشگوار پانی۔ سیراب کرنے والا۔ بہت پانی۔	رَوِيٌّ (س) رِيًّا وَرِيًّا وَرِوِيًّا. مِنَ الْمَاءِ: سیراب ہونا۔ صفت (زَيْنَانٍ): مَوْنَتٌ زَيْنًا. ج رِوَاءٌ..... الشَّجَرُ: سرسبز ہونا۔
السَّرِيْتُ: ست۔ دیر کرنے والا۔ زَجْلٌ (مَرِيْتُ) الْعَيْنِيْنِ: کمزور نظر والا۔	السَّرْوَاءُ: ج أَرْوِيَّةٌ (الْمَجْرُوِيَّةُ) ج مَسْرَاوِيٌّ وَمَسْرَاوِيٌّ: جانور پر بوجھ باندھنے کی رسی۔ السَّرْوَاءُ: خوشگوار پانی۔ سیراب کرنے والا۔ بہت پانی۔	رَوِيٌّ (س) رِيًّا وَرِيًّا وَرِوِيًّا. مِنَ الْمَاءِ: سیراب ہونا۔ صفت (زَيْنَانٍ): مَوْنَتٌ زَيْنًا. ج رِوَاءٌ..... الشَّجَرُ: سرسبز ہونا۔
رَاخٌ يَرِيْبُ زَيْنًا وَرِيْبًا وَرِيْبًا وَرِيْبًا: دُلسل ہونا۔ ڈھیلا ہونا۔	السَّرْوَاءُ: ج أَرْوِيَّةٌ (الْمَجْرُوِيَّةُ) ج مَسْرَاوِيٌّ وَمَسْرَاوِيٌّ: جانور پر بوجھ باندھنے کی رسی۔ السَّرْوَاءُ: خوشگوار پانی۔ سیراب کرنے والا۔ بہت پانی۔	رَوِيٌّ (س) رِيًّا وَرِيًّا وَرِوِيًّا. مِنَ الْمَاءِ: سیراب ہونا۔ صفت (زَيْنَانٍ): مَوْنَتٌ زَيْنًا. ج رِوَاءٌ..... الشَّجَرُ: سرسبز ہونا۔
رِيْبَةٌ: کمزور کرنا۔	السَّرْوَاءُ: ج أَرْوِيَّةٌ (الْمَجْرُوِيَّةُ) ج مَسْرَاوِيٌّ وَمَسْرَاوِيٌّ: جانور پر بوجھ باندھنے کی رسی۔ السَّرْوَاءُ: خوشگوار پانی۔ سیراب کرنے والا۔ بہت پانی۔	رَوِيٌّ (س) رِيًّا وَرِيًّا وَرِوِيًّا. مِنَ الْمَاءِ: سیراب ہونا۔ صفت (زَيْنَانٍ): مَوْنَتٌ زَيْنًا. ج رِوَاءٌ..... الشَّجَرُ: سرسبز ہونا۔
السَّرِيْبُ: سینگ کے اندر کی نرم چھوٹی بڑی۔ ج أَمْرٌ حَخَةٌ.	السَّرْوَاءُ: ج أَرْوِيَّةٌ (الْمَجْرُوِيَّةُ) ج مَسْرَاوِيٌّ وَمَسْرَاوِيٌّ: جانور پر بوجھ باندھنے کی رسی۔ السَّرْوَاءُ: خوشگوار پانی۔ سیراب کرنے والا۔ بہت پانی۔	رَوِيٌّ (س) رِيًّا وَرِيًّا وَرِوِيًّا. مِنَ الْمَاءِ: سیراب ہونا۔ صفت (زَيْنَانٍ): مَوْنَتٌ زَيْنًا. ج رِوَاءٌ..... الشَّجَرُ: سرسبز ہونا۔
الرَّيْدُ: پہاڑ کا باہر کو نکلا ہوا کنارہ۔ ج رِيْدٌ.	السَّرْوَاءُ: ج أَرْوِيَّةٌ (الْمَجْرُوِيَّةُ) ج مَسْرَاوِيٌّ وَمَسْرَاوِيٌّ: جانور پر بوجھ باندھنے کی رسی۔ السَّرْوَاءُ: خوشگوار پانی۔ سیراب کرنے والا۔ بہت پانی۔	رَوِيٌّ (س) رِيًّا وَرِيًّا وَرِوِيًّا. مِنَ الْمَاءِ: سیراب ہونا۔ صفت (زَيْنَانٍ): مَوْنَتٌ زَيْنًا. ج رِوَاءٌ..... الشَّجَرُ: سرسبز ہونا۔

رَبِيعٌ (رَبِيعَةٌ وَرَبِيعَةٌ) نرم ہوا۔
 رَبِيعٌ الْقَوْمِ: ارزانی و فراخ سالی میں پہنچنا۔
 رَبِيعٌ الْقَوْمِ: موٹا پانچاب ہونا۔ رَبِيعٌ رَبِيعٌ
 الْبِلَادِ: ارزانی و فراخ سالی والے ہونا۔ رَبِيعٌ رَبِيعٌ
 الْقَوْمِ: ارزانی و فراخ سالی میں پہنچنا۔
 الرَّبِيعُ: رال جو بچے کے منہ سے نکلے۔ (الرَّبِيعُ
 وَالرَّبِيعُ وَالرَّابِعُ): ہڈی کا مغز جو لائبریری کی وجہ
 سے پھل چکا ہو۔
 الرَّابِعَةُ: زانو کی ہڈی کا مغز۔
 رَأْسُ يَرْبِيعُ رَبِيعًا وَرَبِيعًا: منگھیرا نہ چال
 چلنا۔ الشَّيْءُ: کسی چیز کی پوری حفاظت کرنا
 الْقَوْمِ: برتر ہونا غالب ہونا۔
 الرَّبِيعُ: سردار قوم۔
 رَأْسُ يَرْبِيعُ رَبِيعًا: مال و متاع جمع کرنا
 ۵: کھلانا۔ پہنانا۔ مدد کرنا۔ غمی بنانا ۵
 مَسَالًا: دینا مِنْ خَالِهِ: درست کرنا۔ کہا
 جاتا ہے "فَلَانٌ لَا يَرْبِيعُ وَلَا يَبْرِي" فلاں
 نہ نقصان پہنچاتا ہے نہ فائدہ۔ "وَلَا تَسْرِشْ
 عُلْيٰى" میری گفتگو میں دخل مت دو۔
 (..... وَأَرَأَيْتَ وَرَبِّشَ "السَّهْمِ"): پر لگانا۔
 رَبِّشَ السَّهْمِ فَلَانًا: کمزور کرنا۔
 إِزْتَمَّشَ: تیر میں پر لگانا
 (..... وَتَرَبَّشَ): خوش حال ہونا۔
 الرَّبِيعُ: پرندوں کے پر۔ پرندوں کے لئے
 زینت اور حفاظت کا ذریعہ ہیں۔ ان کی
 (پروں کی) پانچ اقسام ہیں۔ (۱) الْقَوَادِمُ
 (۲) الْمَنَاكِبُ (۳) الْخَوَافِي (۴) الْأَبَاهِرُ
 (۵) الْكَلْبِيُّ.
 السَّرِيشُ: پرندے کے پر۔ واحد (رَبِيعٌ) رَج
 رَبِيشَ وَأَرَبِيشَ. الرِّيشُ: لباسِ فخرہ۔
 مَتَاعُ خَانَةِ: مال۔ سرسبزی۔ معاش۔
 السَّرَاشُ: پرندے کے پر۔ رَجَ أَرَبِيشَ .
 جَمَلُ رَاشٍ: کمزور اونٹ۔ رَجَلُ رَاشٍ:
 مالدار مرد۔ رَمَحُ رَاشٍ: کمزور نیزہ۔ طَبِيسُ
 رَاشٍ: پرندہ جس کے پر نکل آئے ہوں۔
 مَوْنَتُ رَاشَتَةٍ كَمَلًا (رَبِّشَ وَرَبِّشَ): بہت
 پتوں والی گھاس۔

الرَّبِيعُ: کان یا چہرہ پر بکثرت بال۔
 الرَّبِيشُ: مِنَ النُّوقِ: کانوں پر بکثرت بال
 والی اونٹنی۔
 السَّرِيشُ: عمدہ لباس و سامان۔ سرسبزی۔
 معاش۔ مال۔
 الرَّبِيشُ: تیروں پر پر لگانے والا۔
 السَّرِيشُ: قار۔ رشوت لینے والے اور رشوت
 دینے والے کا پھولیا۔ پردار تیر۔
 الْأَرَبِيشُ: کانوں یا چہرہ پر بہت بال والا۔
 مَوْنَتُ رَبِيشَةٍ رَبِيشٌ وَرَجَلُ أَرَبِيشٍ:
 مال و لباس والا مرد۔
 السَّرِيشُ وَالْمَوْنَتُ: مِنَ السَّهْمِ: پر لگانا یا
 ہوا تیر۔ وَالْمَوْنَتُ الْمَوْنَتُ: پروں کے نقش
 والی چادر۔ السَّرِيشُ: بہت بالوں والا اکم
 گوشت والا۔ کمزور پٹھہ والا۔
 السَّرِيشُ مِنَ الرَّبِيعِ: سر میں شاہی اعزاز
 کا پر لگانے والا۔
 الرَّبِيعَةُ: ایک پاٹ کی چادر۔ ہر کپڑا جو چادر
 کی مانند ہو۔ کفن۔ رَجَ رَبِيعًا وَرَبِيعًا:
 الرَّبِيعَةُ: ایک پاٹ کی چادر۔
 رَاعَ يَرْبِيعُ رَبِيعًا وَرَبِيعًا وَرَبِيعًا:
 الشَّيْءُ: نشوونما پانا۔ زائد ہونا الزَّرْعُ:
 کھیتی کا بڑھنا رَبِيعًا السَّرَابُ: سراب
 کا کبھی ظاہر ہونا کبھی ناپید ہونا مِنْهُ: ڈرنا
 عَنْهُ وَالْيَبِ: واپس آنا۔ کہا جاتا ہے
 "هَرَبْتُ الْإِبِلَ فَصَاحَ بِهَا الرَّاعِي"
 فَرَاعَتْ الْيَبَ" اونٹ بھاگ پڑے اور
 چرواہے نے آواز دی تو سب اس کے پاس
 واپس آ گئے۔ "فَلَانٌ لَا يَرْبِيعُ
 لِكَلْبِكَ": فلاں تیری بات نہیں مانتا۔
 رَبِيعٌ الْقَوْمِ: جمع ہونا الطَّعَامُ: بڑھنا اور
 زیادہ ہونا الطَّعَامُ: بڑھانا اور زیادہ
 کرنا۔
 أَرَاعَ إِزَاعَةً: الزَّرْعُ: کھیتی کا بڑھنا اللَّهُ
 الزَّرْعُ: کھیتی کو بڑھانا الْقَوْمُ: بڑھی ہوئی
 کھیتی والی ہونا الْإِبِلُ: اونٹوں کا بہت
 بچوں والے ہونا۔

تَوْبِيعٌ: بھمبرنا۔ بے قرار ہونا۔ حیران ہونا
 الخَاءُ: بہنا۔ السَّرَابُ: سراب کا کبھی ظاہر
 ہونا کبھی ناپید ہونا الْقَوْمُ: اکٹھا ہونا۔
 يَبْدَأُ بِالْجُودِ: فیاضی کرنا۔
 اسْتِرَاعٌ اسْتِرَاعَةٌ: حیران ہونا يَبْدَأُ
 بِالْجُودِ: فیاضی کرنا۔
 السَّرِيعُ: عصب۔ سراب کی اضطرابی کیفیت۔
 خَوْفٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: ہر چیز کا اوّل و
 أفضل۔ مِنْ الصَّخِي: چاشت کے وقت کی
 روشنی و چمک مِنَ السِّدْرِ: دامن و
 آستین کی زیادتی۔ السَّرِيعُ: ہر چیز کی زیادتی
 اور کہا جاتا ہے "لَيْسَ لَهُ رَبِيعٌ" اس کے لئے
 پیداوار نہیں۔
 السَّرِيعُ: بلند نلہ۔ بلند جگہ۔ پہاڑ کا کشادہ
 راستہ۔ وادی کی بلندی سے پانی بہنے کی جگہ۔
 عِيسَايُومُ: کاجر جگہ۔ کبوتروں کا برج۔ رَجَ
 رَبِيعًا وَرَبِيعًا وَأَرَبِيعًا:
 الرَّبِيعَةُ: بلند زمین۔ اکٹھی جماعت۔
 السَّرِيعَانُ: مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: ہر چیز کا اوّل و
 أفضل أرض (مَرِيعَةٌ): سرسبزی والی زمین۔
 مَطَرٌ (مَرِيعٌ): سرسبزی لانے والی بارش۔
 نَسَاقَةٌ (رَبِيعَانَةٌ وَمَرِيعَانَةٌ): جلدی اور بہت
 دودھ والی اونٹنی۔
 رَاعَ يَرْبِيعُ رَبِيعًا: بھاگنا۔
 رَبِيعٌ رَبِيعًا: الرَّبِيعَةُ: کبھی میں تر ہونا۔
 تَوْبِيعٌ: الرَّبِيعَةُ: کبھی میں تر کرنا۔
 الرَّبِيعُ: گردوغبار۔ مٹی۔
 السَّرِيعُ: خاک آلود۔
 رَأَفَ يَرْبِيعُ رَبِيعًا وَأَرَبِيعًا: رَبِيعٌ رَبِيعٌ:
 سبزہ زار زمین آنا۔ رَأَفَتِ السَّمَايَةُ: سبزہ
 چرنا۔
 رَبِيعٌ مَرِيعَةٌ: لَبِيطَةٌ: تہمت کے قریب
 ہونا۔
 أَرَأَفَ إِزَافَةً وَأَرَبِيعًا: الْمَكَانُ: سبزہ
 زار ہونا۔
 الرَّافُ: شراب۔
 السَّرِيفُ: سبزہ زار۔ پانی کے قریب کی

زمین۔ جازیناف ورئوف۔ الریف : کھانے پینے میں وسعت۔ مکان (زریف): سرسبز جگہ۔ مؤنث ریفقہ۔	بڑا سکہ (اس کے معنی کے لحاظ سے ذیل ہے)۔ رَامَ يَوْمِيَوْمًا. حَمَلُ البَعِيرِ : بوجھ کا جھک پڑنا..... المَكَانُ وَمِنْهُ : دور ہونا۔ علیحدہ ہونا بالمَكَانِ : اقامت کرنا..... غنہ۔	آ جانا۔ رَيْنٌ. يَه : لائیل مشکل میں پڑنا۔ مرنا۔ غم میں بتلا ہونا۔ أَرَانُ إِزَانَةَ القَوْمِ : ہلاک شدہ مویشی والی ہونا۔ بِئْتِ جَانَا اور کہا جاتا ہے : "مَارَامَ يَفْعَلُ" كَلْدًا" وہ ہمیشہ ایسا کرتا رہا اور یہ کان جیسا عمل کرتا ہے جیسے : "إِذَا رُمْتُ مِمَّنْ لَا يَسْرِينُ مَنِيْمًا" بمعنی لَا يَسْرَالُ مَنِيْمًا. (..... رَيْسًا وَرَيْسَانًا) الجُرْحُ : زخم کا انگور باندھنا۔
..... الشَّرَابُ : شراب کا چمکنا اور نمایاں ہونا۔ (..... رَيْقًا وَرَيْقًا) بِنَفْسِهِ : جان دینا۔ رَيْقَهُ. الشَّرَابُ : نہار منہ پلانا۔ أَرَانُ إِزَانَةَ المَاءِ : گراتا۔ تَرَيْقِي. الشَّرَابُ : شراب کا چمکنا اور نمایاں ہونا۔	رَيْمٌ. يَه : چھوڑ دیا جانا۔ رَيْمٌ تَرِيْمِيًّا. بالمَكَانِ : اقامت کرنا۔ عَلِي كَلْدًا : بڑھنا..... السَّحَابَةُ : بادل کا ہمیشہ گھرا رہنا۔ الرَّيْمُ : محس۔ زیادتی۔ تم کہتے ہو "فِي هَذَا العِدْلِ رَيْمٌ عَلِي الاخِر" اس گھری میں دوسری سے زیادتی ہے۔ چھوٹی پہاڑی۔ قبر۔ قبر کا درمیان۔ تاریکی پھیلنے تک دن کا آخری حصہ۔ وقت کا لسا عرصہ۔ سیرھی۔ ذبح شدہ جانور کی ہڈی جو تقسیم کے بعد بچ جائے اور قصائی کو دے دی جائے۔ (..... والرَيْمُ) : خالص سفید اونٹنی۔	رَاةَ يَسْرِينَةَ رَيْهًا. الرَّجُلُ : آنا جانا۔ آمدورفت کرنا۔ رَيْةً تَرِيْمِيًّا : آمدورفت کرانا۔ تَرِيْمَةَ. الشَّرَابُ : شراب کا کبھی نمایاں کبھی تاپید ہونا۔ أَرَيْسِي اِرْيَاءً. الرَّايَةَ : جھنڈا گاڑنا۔ جھنڈا نصب کرنا۔ رَيْئِي. الرَّايَةَ : جھنڈا بنانا۔
الرَّيْقُ : محس۔ پائل۔ پانی۔ حُبْرُ رَيْقِي : بغیر سالن کے خشک روٹی (.....) وَالرَّيْقُ وَالرَّيْقُ : مِنْ كُلِّ شَيْءٍ : ہر چیز کا اول و اقضل۔ الرَّيْقُ : نَجَ اِرْيَاقٍ وَرِيْسَاقٍ وَ(الرَّيْقَةُ): تھوک۔ کہا جاتا ہے "إِنِّي عَلِي الرَّيْقِ" میں نہار منہ ہوں و "شَرِبْتُ عَلِي الرَّيْقِ وَعَلِي رَيْقِي النَّفْسِ أَوْ رَيْقَةَ النَّفْسِ" میں نے نہار منہ پیا۔ الرَيْقُ : قوت۔ بقیہ جان۔ الرَّيْقُ : قَا۔ خالص۔ نہار منہ والا مقل۔ حُبْرُ رَيْقِي : بغیر سالن کے خشک روٹی۔ المَاءِ الرَّيْقُ : وہ پانی جو نہار منہ پیا جائے۔ الرَّيْقُ : نہار منہ والا۔ رَالٌ يَسْرِينُ رَيْلًا. المَصْبِيُّ : بچے کے منہ سے لعاب بہنا۔ رال بہنا۔ الرَّيَالُ : رال۔ منہ کا لعاب۔ چاندی کا ایک		



ز : الزای : بنیادی حروف میں سے گیارہواں حرف ہے اور حروف اسلیہ (زبان کی نوک سے نکلنے والے) میں سے ہے۔
 زَاب : (ف) زَابَا : ڈگڈگا کے پینا.....
 السدھرُ بہ : زمانہ کا لٹنا..... الماشیة : مویشی ہانکنا۔ یَحْمِلُه : بوجھ کھینچنا (.....) و
 اِزْدَابُ اِزْدَابَا القِرْبَةِ : مشک اٹھا کر تیز دوڑنا۔
 زَابَرُ : القُوبُ : کپڑے کا رواں والا ہونا۔
 القُوبُ : کپڑے سے رواں نکالنا۔
 الزُبُورُ والزُورُورُ والزُورُورُ : کپڑے کا رواں۔ کہا جاتا ہے ”ذَهَبَتِ الاَيَّامُ بِتَضَارِبِهِ وَنَقَضَتْ زُنْبُورَهُ“ زمانہ اس کی روئیں کو لے گیا اور اس کے روئیں کو جھاڑ دیا۔ یعنی اس کا زمانہ پرانا ہو گیا۔
 زَابِقُ : الشَّيْ : پارہ کی قلعی کرنا۔
 الزَّبِيقُ والزَّبِيقُ : پارہ۔
 زَابَجُ : (ف) زَابَجَا : بَسْنَهُمْ : جھڑکانا۔
 اُكْسَانَا : ایک کو دوسرے پر مسلط کرنا۔
 زَادَا : (ف) زَادَا وَزَادَا وَزَادَا : گھبرا دینا۔
 الزُّوْدُو الزُّوْدُو : گھبراہٹ۔
 لَيْلَةٌ (مَزُوْدَةٌ) : خوف و گھبراہٹ کی رات۔
 زَارُ : (ف) يُوْزِرُ : (س) يُوْزِرُ اوْزَارَا وَتَسْزَارُوْا وَازَارُوْا ازَارَا وَتَسْزَارُوْا : شیر کا چنگھارنا۔ صفت (زَبُو وَزَابُو وَمُزُو) الفحلُ : آواز کو گڑ گڑانا۔
 السِّزَارَةُ : زَارُ : کا اسمِ مَرَّة۔ جھگڑا جھاڑی۔

بَارِعٌ مِنَ الْاِبِلِ وَالقَنَمِ : اونٹوں اور بکریوں کا گنجان ریوڑ۔
 زَاوَا : سر اور دم اٹھا کر تیز چلنا..... ہ : خوف
 وِلَانَا..... الشَّيْ : ہلانا حرکت دینا۔
 تَسْزَارُوْا : ڈر کر چھینا۔ اپنے دونوں پہلوؤں کو ہلاتے ہوئے چلنا..... حِنَةٌ : ڈر کر خاساری کرنا..... الشَّيْ : ہلانا۔
 زَاطُ : (ف) زَاطَا : بہت شور مچانا۔
 زَاْفَةُ : (ف) زَاْفَا : جلدی کرنا۔
 اَزَاْفُ اِزَاْفَا : عَلَيْهِ : ادھر مری کو مار ڈالنا۔
 اَزَاْفَةُ بَطْنُهُ : بوجھل کرنا کہ چل نہ سکے۔
 السُّوْاْفُ : جلدی کرنا۔ قُوتُ زُوْاْفُ : جلدی کی موت۔
 زَاْكُ : (ف) زَاكَاْنَا : ناز سے چلنا۔
 تَزَاءَكَ تَزَاوَاكَا : مِنهُ : شرم کرنا۔
 زَامُ : (ف) زَامَا وَزَوَامَا : جلدی مرنا۔
 خوب ڈٹ کے کھانا..... ہ : گھبرا دینا۔
 ہ : التَّوْدُ : کیکپا دینا..... لَيْلِي حِكْمَةٌ : ایسی بات کہتا جس کا حق یا باطل معلوم نہ ہو اور کہا جاتا ہے ”تَسَاوَامُ بِحَوْرَفٍ“ یعنی اس نے کچھ نہیں کہا۔
 زَامُ زَامَا وَزَامَمُ : (س) زَامَا وَزَوَامُ : بہت گھبرانا۔ زَامُ بَفْلَانُ : چلانا۔ آواز دینا۔
 زَامَةٌ تَزَامِيْمَا : گھبراہٹ میں ڈالنا۔
 زَامَةٌ : عَلَيَّ الامرُ : کسی کام پر مجبور کرنا۔
 الجُورُحُ : زخم کا اچھے ہونے تک علاج کرنا۔
 السُّوْتُ (الزُّوَامُ) : مکر وہ موت۔ جلدی کی موت۔
 زَامُ : (ف) زَامَا وَزَوَامَا : جلدی کرنا۔

الزُّوْمُ : آ نکھ۔ حسب۔ کہا جاتا ہے ”طَعَنُوْا فِیْ زِيْمِهِ“ لوگوں نے اس کی حسب کے متعلق طعن و تشنیع کی۔
 الزُّوْمُ : بہت خوفزدہ۔
 الزُّوْمَةُ : حاجت۔ بہت کھانا پینا۔ ہوا سخت آواز۔ کلمہ۔ کہا جاتا ہے ”مَسَا يَعْصِيهِ زَامَةٌ“ وہ اس کے ایک کلمہ کی بھی مخالفت نہیں کرتا۔
 الزُّوْمَةُ مِنَ الطَّعَامِ : کھانے کا ذخیرہ جو کافی ہو۔
 السُّوَانُ : ایک قسم کا دانہ جو عموماً گیہوں کے کھیت میں اگتا ہے اور گیہوں کے مشابہ مگر اس سے کچھ چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے کھانے سے نیند بہت آتی ہے۔ واحد (زُوْاْنَةٌ) زَايُ : (ف) زَايَا : تکبر کرنا۔
 اَزَايُ : فَلَانَا بَطْنُهُ : پیٹ بھر جانے کی وجہ سے حرکت پر قادر نہ ہونا۔
 زَبُ : (ض) زَبِيْنَا : چہرے اور کانوں پر بہت بال ہونا..... الشَّمْسُ : آفتاب کا ڈوبنے کے قریب ہونا۔
 زَبُ : (ن) زَبَا : القِرْبَةُ : مشک بھرنانا..... الحُمَّلُ : بوجھ اٹھانا۔
 زَبِيْتِ : الشَّمْسُ : آفتاب کا ڈوبنے کے قریب ہونا..... العَيْبُ : انگور خشک کرنا۔
 السُّرْحَلُ : زیادہ بولنے سے جھاگ آنا۔
 کہا جاتا ہے ”تَكَلَّمْتُ فَلَانًا حَتَّى زَبْتُ فَمُه“ فلاں نے گفتگو کی یہاں تک کہ اس کے من سے جھاگ آنے لگا۔
 اَزَبُ : اِزْبَابَا العَيْبُ : انگور خشک کرنا.....

الشمس: ڈوبنے کے قریب ہونا۔

تَزْبَبُ: انگور خشک ہونا۔

الزَّجْلُ: غصے سے بھر جانا..... فِی الْكَلَامِ:

زیادہ بولنے سے جھاگ نکلنا۔

إِزْدَبَّتْ: اِزْدَبَانًا الْقَرْيَةَ: منگ کا بھر جانا۔

الزَّب: مہس۔ بالوں کی زیادتی و لمبائی۔

الزَّبَانِيَّة: ایک قسم کا بڑا چوہا جو بہرا ہوتا ہے

اور چوری میں اس کی مثال دیا کرتے ہیں

اور کہتے ہیں "أَسْرَفِي مِنَ زَبَانِيَّة".

الزَّبِيْب: خشک انگور یا انجیر بیچنے والے کو "زَبَاب"

کہتے ہیں۔ سانپ کے منہ کا زہر۔

الزَّبِيْتِيَّة: زبیب کا واحد۔ ایک قسم کا زخم جو

ہاتھ میں ہوتا ہے۔ منہ کے جھاگ۔

الزَّبِيْتَان: سانپ یا کتے کی آنکھ کے اوپر دو

سیاہ نقطے اور اسی وجہ سے سانپ کو "ذَاتُ

الزَّبِيْتَيْنِ" کہتے ہیں۔

الْأَزْبُ: چہرے اور کانوں پر بہت بال والا۔

مَوْتٌ زَبَاءٌ: غمِ آزْبُ: سرسبز اور زیادہ

پیداوار والا سال۔ امثلہ عرب میں ہے "كُلُّ

أَزْبٌ نَفُوْرٌ" یعنی چہرے پر بالوں والا اونٹ

بدکنے والا ہوتا ہے اس وجہ سے کہ بالوں کی

زیادتی کے سبب سے اپنی دیکھی ہوئی چیز کو

پکھ اور خیال کرتا ہے اور بدکتا ہے۔

ذَاهِيَةٌ زَبَاءٌ: بڑی مصیبت۔

الزَّبِيْبِيُّ: کشمش بیچنے والا۔ بھگوئے ہوئے

خشک انگور۔ خشک انگور کی شراب۔

المُزْبُ والمُزْبَب: قا۔ بہت مال والا۔

الزَّبِيْبِيُّ: پست قدم۔

زَبَدٌ: (ن) زَبَدًا: بکھن کھلانا..... السَّقَاءُ:

منگ میں بکھن نکلنے کے لئے بلوانا۔

زَبَدٌ: (ش) زَبَدًا، السَّوْفِيُّ: ستوں میں بکھن

ملانا..... لَهُ: بکھن دینا۔

زَبَدٌ، اللَّيْنُ: دودھ کے اوپر بکھن آنا۔

شِدْقُهُ: جڑے سے جھاگ نکلنا..... الْقَطْنُ:

روٹی دھننا۔

أَزْبَدَ، أَلْبَحْرُ، أَوِ الْقَيْدُ، أَوِ الْقَمِّ: سمندری یا

ہانڈی یا منہ سے جھاگ نکلنا۔ کہا جاتا ہے

"أَزْعَى الرَّجُلُ وَأَزْبَدَ" یعنی اس کا غیظ و

غضب جوش میں آ گیا اور اس نے دھمکی دی۔

الشِّيءُ: بہت سفید ہونا..... السَّبْدُ وَنَحْوُهُ:

شگوفہ نکلنا۔

تَزْبَدُ، الشَّدْقُ: جڑے سے جھاگ نکلنا۔

الزَّجْلُ: غضبناک ہونا اور دھمکی دینا۔ الزُّبْدَةُ:

بکھن لینا..... الشِّيءُ: خلاصہ لینا۔ خلاصہ

نکالنا۔ نکلنا..... التَّيْمِيْنُ: قسم کھانے میں جلدی

کرتا۔

الزُّبْدَةُ وَالزُّبْدُ: بکھن۔ ج زُبْدٌ وَزُبْدَةٌ

الشِّيءُ: چیز کا عمدہ و افضل حصہ اور اِخْتَلَطَ

زُبْدُهُ بِخَائِيْهِ: ایسے موقع پر بولتے ہیں کہ

جب کوئی شخص اپنے معاملہ میں متحیر ہو

جائے۔

الزُّبْدُ: داد و ہش۔

الزُّبْدُ: ج۔ اَزْبَادٌ وَالزُّبْدَةُ: ج زُبْدٌ:

جھاگ۔ میل اور اسی سے مثل ہے "صَرَخَ

السَّحْبُضُ عَنِ الزُّبْدِ" خالص جھاگ سے

علیحدہ ہو گیا۔ اس موقع پر بولتے ہیں جبکہ خبر

منظون کے بعد سچی بات معلوم ہو۔

الزُّبَادُ: ایک قسم کی خوشبو جو ایک جانور سے

حاصل کی جاتی ہے اور یہ جانور بلی کی مانند

اس سے کچھ بڑا ہوتا ہے اور اس جانور کو بھی

الزُّبَادُ وَسَبْوُورُ الزُّبَادِ: اور قِطُّ الزُّبَادِ: کہا

جاتا ہے۔

الزُّبَادُ: ایک قسم کی نباتات۔ زُبَادُ اللَّبَنِ:

غیر سفید چیز اور اسی سے مثل ہے "اِخْتَلَطَ

الضَّائِرُ بِالزُّبَادِ" یعنی عمدہ روٹی سے مل گیا۔

الزُّبْدِيَّةُ: مٹی کا پیالہ۔ ج زَبَادِيٌّ.

المُزْبَدُ: بکھن نکلنے کا آلہ۔ ج عَزَابِدُ.

المُزْبَدُ: قا۔ جھاگ بھینکنے والا۔ بَحْوُ مُزْبَدٌ:

جھاگ پھینکنے والا سمندر۔

المُزْدَبِدُ: بکھن والا۔

زُبْرَةٌ: (ن) (ش) زُبْرًا، عَنِ الْأَمْرِ: کام سے منع

کرتا۔ روکنا..... السَّائِلُ: جھڑکتا..... الرَّجُلُ:

پتھر مارنا..... الْبِنَاءُ: عمارت کو ایک کے اوپر

ایک بنانا..... عَلِيْبُهُ: صبر کرنا..... وَزُبْرٌ

وَإِزْدَبَّتِ الْكِنَابُ: لکھنا۔

زُبْرٌ: (ک) زَبْسَاةٌ: بڑے جسم کا ہونا۔

صفت (زُبْرِيْن)

أَزْبَرُ، الرَّجُلُ: دلیر ہونا۔ برے جسم کا ہونا۔

الْكَيْشُ: موٹا کرنا۔

إِزْبَارٌ وَإِزْبَارًا: کتے کے بال کھڑے کرنا

..... الشَّعْرُ: بال کھڑے ہونا۔ الرَّجُلُ:

آمادہ شرارت ہونا..... النَّجَاثُ وَالْوَيْرُ:

نباتات یا اونٹ کے بالوں کا آگنا۔

السُّزْرُ: مہس۔ عقل۔ قوی۔ مضبوط۔ پتھر۔

تحریر۔ کلام۔

السُّزْرُ: کتاب۔ ج زُبُوْرٌ: عقل۔ کہا جاتا

ہے "مَالَهُ زُبُوْرٌ" اس کو عقل نہیں۔

أَخَذَهُ (بِزُبُوْرِهِ أَوْ بِزُبُوْرِهِ): یعنی اس نے اس

کو پورا لے لیا۔

الزُّبُوْرُ: بہت قوی۔

السُّزْرَةُ: لوہے کا بڑا ٹکڑا۔ کاندھا اور پیٹھ

ایال (شیر وغیرہ کی) تائی۔ ج زُبُوْرٌ وَزُبُوْرٌ.

السُّزُوْرُ: فرشتہ۔ گروہ۔ کتاب۔ ج زُبُوْرُ۔

حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب۔

السُّزْبُوْرُ: بکھی ہوئی چیز۔ قوی مرد۔ مصیبت۔

ظریف۔ ہوشیار مرد۔ پتھر۔

الْأَزْبَرُ: بڑے کندھوں والا۔ ایذا رسان۔

مَوْتٌ زَبْوَاءٌ: ج زُبُوْرٌ.

الزُّبُوْرَةُ: زُبُوْرٌ: کا مصدر۔ تحریر۔ کتابت۔

الجُزْبُوْرُ: قلم۔

المُزْبُوْرُ: بڑے کندھے والا۔

أَرْضٌ حَزْبُوْرَةٌ: بہت بھڑوں والی زمین۔

أَسَدٌ مُزْبُوْرِيٌّ: بہت ایال والا شیر۔

بَشَرٌ (مُسَبْوُوْرَةٌ): پتھروں سے من بنایا ہوا

کنواں۔

زُبْرَجٌ، الشِّيءُ: خوبصورت بنانا۔ مزین

کرتا۔ آراستہ کرتا۔

الزُّبُوْرُجُ: نقش و نگار کی زینت۔ ہر خوبصورت

چیز۔ سونا۔ سرخ پتلا بادل۔ ج زُبْرَانِجُ.

الزُّبْرُجُدُ: زمرد کے مشابہ ایک مٹی پتھر ج

زُبْرَانِجُ.

زَبَطُ: (ض) زَبَطًا وَزَبَطًا. البَطُّ: كزكرانا۔

الزَّبَاطَةُ وَالزَّبَاطَةُ بَط. تَزْبَعُ: بدخلق ہونا۔ غضبناک ہونا۔ جھگڑالو ہونا۔

الزَّبِيعُ: غصہ ور جھگڑالو۔ الزَّبِيعُ: حقیر۔ پست۔ قد۔

الزُّوْبَعَةُ: بگولہ۔ اس کو اُمُّ زُوْبَعَةَ اور اَبُو زُوْبَعَةَ بھی کہا جاتا ہے۔ ج زَوَابِع. الزَّوَابِعُ: مہیبیتیں۔

زَبْعُرُ. الزَّبْعُورِيُّ: بدخلق۔ سخت۔ چہرے اور ابرو پر زیادہ بالوں والا۔ مادہ گمرچھ اور بقول بعض ایک جانور ہے جو اپنے سینکلوں پر ہاتھی کو اٹھالیتا ہے۔

الزَّبْعُورِيُّ: لمبے پے والا تیر۔

زَبَيْقُ: (ض) زَبَيْقًا. شَعْرَةٌ: بال اکھیرنا۔ فی السُّجُنِ: قید کرنا۔ سگی ڈالنا۔ فی الشَّيْءِ: داخل کرنا۔ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ: مخلوط کرنا۔ ملانا۔ المُفْضَلُ: تالا کھولنا۔

السَّمْرَةُ بولدھا: پھینک دینا۔

الزَّبَيْقُ: فی البَيْتِ: گھر میں داخل ہونا۔ فی الجِبَالَةِ: جال میں پھنسا۔ چھینا۔ الزَّائِبَةُ: مِن البَيْتِ: مکان کا گوشہ۔

الآزْبِقُ: بے وقوف جو اپنی حماقت کی وجہ سے اپنی داڑھی کے بال نوچے۔

السَّمْرُوقَةُ وَالزَّبَيْقَةُ: مِنَ اللُّحَى: نوچی ہوئی داڑھی۔

زَبَلٌ: (ض) زَبَلًا وَزَبَلًا. الأَرْضُ: زمین میں کھاد ڈالنا۔ (وَأَزْدَابِلُ الشَّيْءِ: اٹھانا۔ الزَّابِلُ وَالزَّابِلُ: پست۔ قد۔

الزَّبَالُ وَالزَّبَالُ: وہ چیز جس کو چھوٹی منہ میں اٹھا کر لے جائے۔ کہا جاتا ہے "مَأْأَصَابُ مِنْهُ زَبَالًا" اس نے اس سے کچھ نہیں پایا۔

الزَّبَلُ وَالزَّبَلَةُ وَالزَّبِيلُ: گوبر۔ کھاد۔

السَّرْبِيلُ وَالزَّبِيلُ: خشک کدو اندر سے خالی جس میں عورتیں روٹی وغیرہ رکھتی ہیں۔

الذَّبِيلَةُ: لقمہ۔

الزَّبَاةُ: تھوڑا پالی۔ کہا جاتا ہے "مَالِي البَنُو زَبَاةٌ" کنوئیں میں تھوڑا پالی نہیں ہے۔

الزَّبِيلُ: ج زَبَلٌ وَزَبَلَانٌ (وَالزَّبِيلُ) ج زَبَابِيلُ (وَالزَّبِيلُ) وَالزَّبِيلُ) ج زَبَابِيلُ: ٹوکرا۔ برتن۔ توشہ دان۔

الْمَزْبَلَةُ وَالْمَزْبَلَةُ: کوڑا خانہ۔ ج مَزَابِلُ. زَبْنَةٌ: (ض) زَبْنًا: دفع کرنا۔ لکر لگانا۔ علیحدہ کرنا۔

زَبَّتِ النَّاقَةُ: اونٹنی کا دوھنے کے وقت زانو سے مارنا۔ کہا جاتا ہے "زَبَّتْ عَنَّا مَعْرُوقُهُ" اس نے ہم سے بہتر سلوک کو روک لیا۔ زَبْنُ الفِئْرِ: درخت پر پھل بیچنا۔

أَزْبَنَ. بَيْتُهُ عَنِ الطَّرِيقِ: راستہ سے بہت کر علیحدہ مکان بنانا۔

زَابَنَهُ مُزَابِنَةً: ایک دوسرے کو ہٹانا۔ ایک دوسرے سے ٹکرانا۔ درخت پر پھل بیچنا۔

تَزَابَنَ. القَوْمُ: ایک دوسرے کو ہٹانا۔

إِنزَابَنَ. القَوْمُ: علیحدہ ہونا۔ کنارہ پر ہونا۔ تَزَابَنَهُ: زبردستی غلبہ کرنا۔

إِسْتَزَابَنَهُ: غائب ہونا۔

الزَّبِنُ: مہم۔ بَيْتُ زَبْنٍ: گھروں سے علیحدہ گھر۔ مَقَامُ زَبْنٍ: تنگ مقام جہاں کھڑے نہ ہو سکیں۔

الزَّبِنُ: گوشہ۔

الزَّبِنُ وَالزَّبْنُ: بہت دفع کرنے والا۔

زُبْنًا. النَّاقَةُ: اونٹنی کی دونوں ٹانگیں۔

الزَّبِينُ: پیٹھاب پانچا نہ کرو کئے والا۔

الزَّبِينَةُ: سخت۔ جن و انسان میں سے سرکش۔ سیاہی ج زَبَابِيَةٌ.

الزَّبَابِيَةُ. عِنْدَ العَرَبِ: سیاہی۔ ان فرشتوں کو بھی کہتے ہیں جو گنہگاروں کو ہانک کر جہنم کی طرف لے جائیں گے۔

السَّرْبُونُ. مِنَ التُّوقِ: دوھنے کے وقت بہت زانو مارنے والی اونٹنی۔ حَرْبُ زَبُونٌ: سخت لڑائی۔ السَّرْبُونُ: بے وقوف ٹھی (اس معنی میں فصیح نہیں)

السَّرْبُونَةُ وَالسَّرْبُونَةُ: گردن اور کہا جاتا ہے

"فِيهِ زَبُونَةٌ" اس میں ٹکبر ہے۔ زَبَانِي. العَقْرَبُ: جھوکا ڈنک۔

زَبَانِيَا. العَقْرَبُ: جھوکے سر کی جانب وہ دونوں حصے جو آکڑے کے مانند ہوتے ہیں۔

الْمُزَابِنَةُ: مہم۔ اندازہ سے بیچ کرنا۔ زَبْسِي (ض) زَبْسًا وَزَبْسِي ہ: اٹھانا ہا ٹکنا۔ زَبَاهُ بَشْرٌ: تہمت لگانا۔

أَزْبَاهُ إِزْبَاءٌ: اٹھانا۔ زَبْسِي. فَلَانًا: ہا ٹکنا۔ اللِّحْمِ: شکار کے گڑھے میں گوشت بکھیرنا۔

زَبْسِي وَتَزْبِي. الزَّبِيَّةُ: شکار کا گڑھا کھودنا۔ تَزْبِي فِي الزَّبِيَّةِ: شکار کے لئے گڑھے میں چھیننا۔

تَزَابِي تَزَابِيًا: ٹکبر کرنا۔

الزَّبِيَّةُ: درندوں کے شکار کا گڑھا۔ پست۔ جس پر پالی نہ چڑھے۔ ج زَبْسِي: کہا جاتا ہے "بَلِغُ السَّبِيلِ الزَّبِيُّ" یعنی معاملہ بہت سخت ہو گیا۔

الأزْبِي: جلدی۔ نشاط۔ ایک قسم کی چال۔ برائی۔ بڑا معاملہ۔ ج آزَابِي.

زَجٌّ: (ن) زَجًّا: دوڑنا۔ ہ: کسی کو نیزے کے پچھلے سرے کے لوہے سے مارنا۔ زَجُّهُ بِالوُضْعِ: کسی کو نیزہ مارنا۔ بالشَّيْءِ: کوئی چیز پھینکنا۔

زَجٌّ: (ض) زَجَجًا وَزَوَجَّ. حَاجِبَةٌ: لمبی اور باریک ابرو والا ہونا۔ صفت (أَزَجَّ): مَوْشَرَّجًا ج زَجٌّ: (ایسی بھوں کو بھی أَزَجَّ کہتے ہیں۔)

زَجَجٌ. الحَاجِبُ: ابرو کو لمبی اور باریک بنانا۔ المَوْضِعِ: درست و ہموار کرنا۔ کہا جاتا ہے "نَقَرُ خَشْمِيَةٍ فَمَ زَجَجِ مَوْضِعِ النَّقْرِ": اس نے کلڑی کو کھودا پھر کھدی ہوئی جگہ کو ہموار کیا۔

أَزَجَّ. السَّرْمُخُ: نیزے کا ٹھنڈا حصہ لگانا۔ نیزے کا ٹھنڈا حصہ نکالنا۔

السَّرْمُخُ: نیزے کا ٹھنڈا لوہا (اس کے مقابلہ میں

السَّرْمُخَةُ وَالسَّرْمُخَةُ: گردن اور کہا جاتا ہے

السَّرْمُخَةُ وَالسَّرْمُخَةُ: گردن اور کہا جاتا ہے

السَّرْمُخَةُ وَالسَّرْمُخَةُ: گردن اور کہا جاتا ہے

او پر کا لوہا ستان ہے) مثل ہے "جَعَلَ الزُّجَّ قَدَامَ الْبِنَانِ" یعنی اس نے ادنیٰ کو اعلیٰ پر فضیلت دی۔ کہنی کی نوک۔ تیر کا پھل۔ ج زجاج و اُرْجُجَةٌ وَرُجْجَةٌ اور کبھی الزجاج کو رمح کے معنی میں بھی مجاز استعمال کرتے ہیں۔

الزُّجَّاجُ وَ الزُّجَّاجُ وَ الزُّجَّاجُ: شیشہ (زجاجہ زجاجہ زجاجہ) شیشہ کا کلا۔ شیشہ کا برتن۔ حَبِيشَةُ الزُّجَّاجِ: ایک قسم کی گھاس جس سے شیشہ صاف کیا جاتا ہے۔ الزُّجَّاجِيُّ: شیشہ بیچنے والا۔

الزُّجَّاجُ: شیشہ بنانے والا۔ الزُّجَّاجَةُ: شیشہ گرمی کا پیشہ۔ الزُّجَّاجُ: پھل گئے ہوئے چھوٹے نیزے۔ سدھانے ہوئے گدھے۔ الاَزُّجُ: لمبی پنڈلیوں والا۔ لمبے لمبے قدم والا شتر مرغ۔ مَوْنَتُ زُجَّاءِ جِ زُجَّجٍ۔

الْمِزْجُ: چھوٹا نیزہ۔ رُمُوحُ (مُزَّجٌ): نچلا ہوا لگا ہوا نیزہ۔

الْمِزْجَةُ: وہ چیز جس سے ابرو کو باریک اور لمبی کریں۔

الزُّجْبَةُ: کلمہ۔ کہا جاتا ہے "مَا سَمِعْتُ مِنْهُ زُجْبَةً" میں نے اس سے ایک کلمہ نہیں سنا۔

زَجْوَةٌ: (ن) زَجْوًا. عَنْ كَذَا: روکنا۔ مَنَعُ كَرْنَا: ڈانٹنا۔ چلا کر دھتکارنا۔ السَّحَابُ: السَّحَابُ: ہوا کا بادلوں کو اٹھا کر لانا۔

الْكَلْبُ وَ بِالْكَلْبِ: کتے کو ڈانٹنا۔ دھتکارنا۔ الطَّيْرُ: شگون لینے کے لئے پرندہ کو اڑانا۔ (اگر دہائی جانب سے پرندہ اڑتا تو اچھا شگون لیتے تھے ورنہ برا) زَجْرُ الرَّجُلِ: کہانت کرنا۔ کہتے ہیں "زَجْرَتُ أَنْ يَكُونُ كَذَا وَ كَذَا" یعنی میں نے ایسا ہونے سے ڈرایا تھا۔

إِذْ جَسْرَهُ: منع کرنا۔ روکنا۔ چلا کر دھتکارنا۔ (وَالزُّجْرُ): رک جانا۔

تَزَجَّرُ الْقَوْمُ عَنِ الشَّرِّ: ایک دوسرے کو برائی سے منع کرنا۔

الزُّجْرُ: مص۔ (..... وَالزُّجْرُ): ایک قسم کی بڑی پھلی۔ ج زَجُورٌ۔

الزُّجْرُ: فَا..... زَا جَرُّ الْإِنْسَانِ: ضمیر۔ أَبُو زَا جَرُّ: کوا۔

الزُّجْرُ: بہت ڈانٹنے والا۔ نَافَقَةٌ (زُّجُورٌ): اونٹنی جو بغیر ڈانٹنے ہوئے دودھ نہ دے۔

الْمُزْجِرُ: ڈانٹنے کی جگہ۔ (..... وَالْمُزْجِرَةُ): ڈانٹنے والی چیز۔ کہا جاتا ہے "ذَكَرُ اللّٰهِ مَزْجِرَةٌ لِلشَّيْطَانِ" اللہ کا ذکر شیطان کے ڈانٹنے کا وسیلہ ہے۔

زَجَلٌ: (ن) زَجَلًا. هُوَ بِبِهِ: تیر مارنا۔ دفع کرنا۔ هُ بِالرُّمْحِ: نیزہ مارنا۔ الْحُمَامُ: کبوتر کو دور جانے کے لئے روانہ کرنا۔ ایسے کبوتر کو حُمَامُ الزَّاجِلِ يَا حُمَامُ الزَّجَالِ: کہتے ہیں۔

زَجَلٌ: (س) زَجَلًا: خوش ہونا۔ گانا۔ شور و فریاد کرنا۔ صفت (زَجَلٌ وَ زَا جِلٌ) الْقَوْمُ: کھیل کود کرنا۔

الزَّجَلُ: شعر کی ایک قسم۔ سَخَابٌ ذُو زَجَلٍ: گرنے والا بادل۔ زَجَلُ السَّحَابِ: جنوں کی گنگناہٹ۔

الزُّجْلَةُ: لوگوں کا شور۔ ج زَجَلَاتٌ۔ الزُّجْلَةُ: لوگوں کی جماعت۔ ہر چیز کا کلا۔ دونوں آنکھوں کے درمیان کی کھال۔ حالت۔ ج زَجَلٌ۔ مَسَافَةٌ (زُّجُونٌ) دور کی مسافت۔

الزَّاجِلُ وَ الزَّاجِلُ: حلقہ کی مانند کٹری جوری کے سرے پر باندھتے ہیں۔ نیزے کے پچھلے حصہ کے لوہے کا حلقہ۔ فَوْجٌ كَا سِرْدَارٍ۔ ج زُوَاجِلٌ۔

الزُّجَالَةُ: چھوٹے نیزے سے مارنے والے لوگ۔

الْمِزْجَلُ وَ الْمِزْجَالُ: چھوٹا نیزہ۔

السَّمْرُجَلُ: کبوتروں کی روانگی کی جگہ۔ نَافَقَةٌ (زُّجْلَاءٌ): تیز رفتار اونٹنی۔

زُجْمٌ: (ن) زُجْمًا: آہستہ بولنا۔ آہستہ

بات سنانا۔ کہا جاتا ہے "سَكَّتَ فَمَا زُجِمَ بِحَرْفٍ" وہ خاموش رہا ایک حرف نہیں بولا۔ الزُّجْمُ: ایک قسم کا پرندہ۔

الزُّجْمَةُ وَ الزُّجْمَةُ: آہستہ بات۔ کہا جاتا ہے "لَمْ أَسْمَعْ لَهُ زُجْمَةً" میں نے اس سے ایک بات بھی نہیں سنی۔ وَ هُوَ لَا يُخَالِفُهُ بِزُجْمَةٍ: وہ اس کی ایک کلمہ کی بھی مخالفت نہیں کرتا۔ الزُّجْمَةُ: رطوبتیں جو بچہ کے ساتھ حکم مادر سے نکلیں۔

قَوْسٌ (زُّجُومٌ): کزور آواز والی کمان۔ الزُّجْمَةُ: نرم و خفی آواز۔ اس کا استعمال نفی میں ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے "مَا سَمِعْتُ لَهُ زُجْمَةً" میں نے اس سے ایک کلمہ نہیں سنا۔

زَجَا (ن) زَجْوًا وَ زَجِيًا تَزْجِيَةً وَ زَجِيًا إِزْجَاءً وَ إِزْجَاسًا: ہانکنا۔ کہا جاتا ہے "كَيْفَ تَزْجِي أَبَاكَ" تم اپنا زمانہ کس طرح بسر کرتے ہو؟ "زَجِيًا فَلَانٌ حَاجَتِي" فلان نے میری حاجت کے حصول کو آسان کر دیا۔ اَزْجِي الْأَمْرَ: مؤخر کرنا۔ اَزْجِي الدُّعْوَةَ: در اہم کار راجع کرنا۔

زَجَا: (ن) زَجْوًا وَ زَجْوًا وَ زَجَاءً: الأَمْرُ: کامیاب ہونا۔ آسان ہونا۔ السَّخْرَانُجُ: خراج کا آسانی سے جمع ہونا۔ فَلَانٌ: کسی منتقل ہونا۔

تَزْجِي تَزْجِيًا، بِالشَّيْءِ: اکتفا کرنا۔ قَاعَتُ كَرْنَا۔

السُّزْجِي: تھوڑی چیز۔ ردی چیز۔ مَوْنَتُ مُزْجَاةٌ۔

الأَزْجِي: اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ أَزْجِي مِنْ فَلَانٍ بِهَذَا الأَمْرِ" یعنی فلان شخص اس کام کو فلان سے زیادہ نافذ کرنے والا ہے۔ السُّزْجِي: کزور جس کو کاموں میں رغبت دلانے کی ضرورت ہے۔

زُجْحَةٌ: (ن) زُجْحًا: دفع کرنا ہٹانا یا جلدی سے کھینچنا۔ عَنْ مَكَانِهِ: علیحدہ کرنا۔

زُجِبَ (ف) زُجِبًا وَ زُجُوبًا: إِلَيْهِ: نزدیک

بہمی۔
 زَحْمَرُ: القِرْبَةُ: مَحَلُّ بَهْرَتَا۔
 زَحْنُ: (ف) زَحْنًا: دیر کرنا..... ہ عین
 الصَّكَّانِ: دور کرنا۔
 تَزْحَنُ: دیر کرنا سمنًا..... عَنِ مَكَاہِہ: ہلنا
 عَلٰی الشَّيْءِ وَعَنْهُ: ناپسندیدگی کے
 باوجود کرنا۔
 زَجَلُّ زُحْنٌ: پست قدم مرد۔ مَوْنٌ زُحْنَةٌ.
 السُّزْحَةُ: سخت گرمی۔ مع ساز و سامان نے
 قائلہ۔ کہا جاتا ہے "لَهُمْ زُحْنَةٌ" ان لوگوں
 کے لئے دیر کا کام ہے۔ "وَلَهُ زُحْنَةٌ بَعْدُ"
 جب کہ سفر کا ارادہ کرے اور کوئی کام نکل
 آئے جس سے تاخیر ہو جائے۔
 الزُّحْنَةُ: وادی کا موڑ۔
 زَحْ: (ن) زَحًا: غضبناک ہونا..... بِالْأَهْلِ:
 اونٹوں کو تیز چلانا..... ہ: گڑھے میں دھکیلنا
 الْمَرْأَةُ: جماع کرنا۔
 زَحْ: (ن) زَحًا وَزَحِيحًا: الجَحْمَرُ:
 چنگاری کا تیز چمکنا۔
 الزَّحْ: مَسْ۔ کینہ۔ غصہ۔ غضب۔
 الزُّحَّةُ: کینہ۔ غصہ۔ غضب (.....) وَالْمَرْحَةُ
 وَالْمَرْحَةُ: بیوی۔
 زُحْرُحُ: الْمَرْأَةُ: جماع کرنا۔
 زُحْرُ: (ف) زُحْرًا وَزُحُورًا وَتَزْحَارًا:
 البَحْرُ: دریا کا چڑھنا اور موج مارنا.....
 الْوَادِي: لمبی اور پانی سے بھری ہوئی ہونا.....
 النَّبَاتُ: نباتات کا لمبا ہونا..... الْقَوْمُ: جنگ یا
 روانگی جنگ کے لئے پُر جوش ہونا.....
 الْحَرْبُ أَوْ الْقِدْرُ: جوش مارنا..... ہ: بھرتا۔
 مَوْنًا: آراستہ کرنا۔ خوش کرنا..... بِسَا
 عِنْدَهُ: فخر کرنا۔
 زَاخِرَةٌ: فخر کرنے میں مقابلہ کرنا۔ کہا جاتا
 ہے "زَاخِرَةٌ فَزَاخِرَةٌ" اس نے اس سے فخر
 کرنے میں مقابلہ کیا اور غالب رہا۔
 زَخْرُ: البَحْرُ أَوْ الْوَادِي: دریا یا وادی کا
 چڑھنا اور موج مارنا۔
 زُخُورٌ: بِمَا عِنْدَهُ: فخر کرنا۔

الزَّاجِرُ: فَا۔ کریم۔ شادماں۔ بھرا ہوا۔ پھلکنے
 والا..... مِنَ الشَّرَفِ: بلند عزت۔
 زَوَاجِرُ: الْوَادِي: وادی کی گھاس۔
 الزُّخَارُ: زُخْرُ: کا اسم مبالغہ۔
 نَبَاتٌ (زُخُورٌ وَزُخَارِيٌّ وَزُخُورِيٌّ) لِمَا
 مَنجَان پودہ۔ زُخَارِيٌّ النَّبَاتُ: پودہ کی
 تروتازگی جبکہ منجان ہوا اور ٹھونڈ نکل آئے۔
 کہا جاتا ہے "قَدْ أَخَذَتْ الْأَرْضُ
 زُخَارِيَّهَا" جبکہ زمین کی نباتات لمبی و طویل
 ہو جائے۔ کَلَامٌ زُخُورِيٌّ: شگبارانہ دھمکی
 آمیز گفتگو۔
 الزُّخُورِيٌّ: لمبا۔
 زُخْرَفَةٌ: خوبصورت بنانا۔ آراستہ کرنا۔
 مَرِينُ: كَرْنَا..... الْكَلَامُ: جھوٹ سے آراستہ
 کرنا۔
 تَزْحُوفُ: الرَّجُلُ: مَرِينُ: ہونا۔
 الزُّخُوفُ: سونا۔ چیز کی خوبصورتی۔
 زُخْرُفُ الْكَلَامُ: جھوٹ سے آراستہ کی ہوئی
 گفتگو۔ زُخْرُفُ الْأَرْضِ: زمین کے سبزی
 کے رنگ۔ رَجُ زُخْرَارِفُ: الزُّخْرَارِفُ:
 کشتیاں۔ پانی پر اڑنے والے کیزے۔
 زُخْرَارِفُ الْمَاءِ: پانی کے راستے۔
 زُخْفُ: (ف) زُخْفًا وَزُخْفِيًّا: بگیر کرنا۔
 زُخْفُ: فِي الْقَوْلِ: بہت بولنا۔
 تَزُخْفُ: مَرِينُ: ہونا۔ آراستہ ہونا۔
 خوبصورت بننا۔
 الْمِرْزُخْفُ: فخر کرنے والا تکبر۔
 زُخْمَةٌ: (ف) زُخْمًا: بختی سے ہٹانا۔
 زُجْمُ: (س) زُجْمًا وَأَزْجَمُ: اللَّحْمُ:
 گوشت کا بدبودار ہونا۔ صفت (زُجْمُ)
 إِزْجَمُ: الْجَمَلُ: بوجھ اٹھانا۔
 الزُّخْمَةُ: بدبودار گوشت۔
 الزُّخْمَاءُ: بدبودار عورت۔
 الْمِرْدَبُ: حَصْر۔ جِزْجَابُ:
 زَقْرُ: لَوْنًا (صَدْرُ: میں ایک لفت ہے)
 أَزْقَرُ: لَوْنًا (أَصْدَرُ: میں ایک لفت ہے)
 الْأَزْدَرَانُ: دونوں موٹے۔ کہا جاتا ہے

بہمی۔
 زَحْمَرُ: القِرْبَةُ: مَحَلُّ بَهْرَتَا۔
 زَحْنُ: (ف) زَحْنًا: دیر کرنا..... ہ عین
 الصَّكَّانِ: دور کرنا۔
 تَزْحَنُ: دیر کرنا سمنًا..... عَنِ مَكَاہِہ: ہلنا
 عَلٰی الشَّيْءِ وَعَنْهُ: ناپسندیدگی کے
 باوجود کرنا۔
 زَجَلُّ زُحْنٌ: پست قدم مرد۔ مَوْنٌ زُحْنَةٌ.
 السُّزْحَةُ: سخت گرمی۔ مع ساز و سامان نے
 قائلہ۔ کہا جاتا ہے "لَهُمْ زُحْنَةٌ" ان لوگوں
 کے لئے دیر کا کام ہے۔ "وَلَهُ زُحْنَةٌ بَعْدُ"
 جب کہ سفر کا ارادہ کرے اور کوئی کام نکل
 آئے جس سے تاخیر ہو جائے۔
 الزُّحْنَةُ: وادی کا موڑ۔
 زَحْ: (ن) زَحًا: غضبناک ہونا..... بِالْأَهْلِ:
 اونٹوں کو تیز چلانا..... ہ: گڑھے میں دھکیلنا
 الْمَرْأَةُ: جماع کرنا۔
 زَحْ: (ن) زَحًا وَزَحِيحًا: الجَحْمَرُ:
 چنگاری کا تیز چمکنا۔
 الزَّحْ: مَسْ۔ کینہ۔ غصہ۔ غضب۔
 الزُّحَّةُ: کینہ۔ غصہ۔ غضب (.....) وَالْمَرْحَةُ
 وَالْمَرْحَةُ: بیوی۔
 زُحْرُحُ: الْمَرْأَةُ: جماع کرنا۔
 زُحْرُ: (ف) زُحْرًا وَزُحُورًا وَتَزْحَارًا:
 البَحْرُ: دریا کا چڑھنا اور موج مارنا.....
 الْوَادِي: لمبی اور پانی سے بھری ہوئی ہونا.....
 النَّبَاتُ: نباتات کا لمبا ہونا..... الْقَوْمُ: جنگ یا
 روانگی جنگ کے لئے پُر جوش ہونا.....
 الْحَرْبُ أَوْ الْقِدْرُ: جوش مارنا..... ہ: بھرتا۔
 مَوْنًا: آراستہ کرنا۔ خوش کرنا..... بِسَا
 عِنْدَهُ: فخر کرنا۔
 زَاخِرَةٌ: فخر کرنے میں مقابلہ کرنا۔ کہا جاتا
 ہے "زَاخِرَةٌ فَزَاخِرَةٌ" اس نے اس سے فخر
 کرنے میں مقابلہ کیا اور غالب رہا۔
 زَخْرُ: البَحْرُ أَوْ الْوَادِي: دریا یا وادی کا
 چڑھنا اور موج مارنا۔
 زُخُورٌ: بِمَا عِنْدَهُ: فخر کرنا۔

الذرة: دانت کے کاٹنے کا نشان۔ عقل۔
 السزارة: ہر وہ چیز جو یواری پر چھلکی جائے اور وہ اس سے چمٹ جائے۔
 السزاد والزرير: سرخ القہم۔ تیز خاطر۔
 الزيرير: ایک قسم کی گھاس جو رنگنے کے کام میں آتی ہے۔ واحد (زريرة)
 الزارة: جانوروں کو لگنے والی مٹی۔
 حصاء (مزر): دانت سے کاٹنے والا گدھا۔
 زرام ايزام ايزنساوا والزام. ايزنساوا. كلاكه اوئسه او بولئه: گنگلیا خون میں پیشاب کا منقطع ہونا۔
 زرب: (ن) زربا. المواشي: جانوروں کو ہارے میں داخل کرنا۔ ليلسنيج: بکریوں کے لئے ہارہ بنانا۔
 زرب: (س) زربا. الضاء: پانی کا بہنا۔
 انزرب: ہارہ میں داخل ہونا۔
 ايزرب. النبات: نباتات کا زرد ہونا۔ سبزی مٹی ہوئی سرخ ہونا۔
 الزرب: مصل۔ داخل ہونے کی جگہ۔ شکاری کے چھینے کی جگہ (..... والزراب) ہارہ۔ ج زرؤب۔
 الزرب پانی پینے کی جگہ۔
 الزاروب. عند الغامية: لمی پتلی گل۔ فصیح لفظ الزرب ہے۔
 السزيبى والسزيبية: مسند۔ گدے نیچے چلی نہالچ۔ ہر وہ چیز جو بچھائی جائے اور اس پر ٹیک لگائی جائے..... بين النبات: گھاس جو زرد ہو یا سبزی آ میز سرخ ہو۔ ج زرأبي۔
 الزربية: جی حضوری۔
 السزيبية: ہارہ۔ شیر کی جھاڑی۔ شکاری کے چھینے کی جگہ۔ ج زراب و زرأب۔
 الميزاب: پرنا۔ ج مزاريب۔
 زرأبنة: فریب دینا..... القوم: شرکاء مکان میں سے کسی کا مکان لینا اور کسی کا زمین۔
 السزجسون: انگور کی ٹہنیاں۔ واحد.....
 زرأبنة (زرأبنة): ایک قسم کا سرخ رنگ۔ شراب (معرب)

ذوبخ (س) ذرخا: ایک جگہ سے دوسری جگہ ہٹنا۔
 الزابح: فا۔ چمٹ۔ ج ذرابح۔
 السزوبخ والسزوبوخ: چھوٹا ٹیلہ۔ ج ذرابح. الموزب: پست زمین۔
 تزونق: بیع غنیہ: کرنا۔ بیع عینہ: کا مطلب یہ ہے کہ کسی شے کو فروخت کرنا قیمت کے ساتھ انتظار قیمت کے عوض۔ زائد چیز لینا۔
 زرذة (ن) زرذنا: گلا گھوٹنا۔
 اليزنغ: زرہ بننا۔ کہا جاتا ہے "زرذة عينه علي صاحبه" وہ اپنے ساتھی پر غضبناک ہوا اور ترش روئی سے پیش آیا۔
 زرد: (س) زرذنا و ايزقرد و قزرذة. القلمنة: لقمہ کو جلدی لگنا اور کہا جاتا ہے "تزرذة العينين" اس نے لاپرواہی کے ساتھ قسم کھانے میں جلدی کی۔
 السزرد: مٹی ہوئی زرہ جس کے حلقے ایک دوسرے میں داخل ہوں۔ ج زرؤد۔
 جمار السزرد: ایک جانور جو گدھے کے مشابہ ہوتا ہے اور اس کے جسم پر دھاریاں ہوتی ہیں۔ گورخر۔
 الزرد: جلدی لگنے والا۔
 الزردة: ایک مرتبہ لگنے کی مقدار۔
 السزرد والجزرد: اونٹ کا گلا گھونٹنے کی رمی تاکہ کف سے سوار کو آلودہ نہ کرے۔
 الزرداد: گلا گھونٹنے والا۔ زرہ بنانے والا۔
 الزرادة: زرہ بنانے کا پیشہ۔
 الموزد: گلا۔
 السزرد: مفع۔ کہا جاتا ہے "أخذہ بمزذردہ" یعنی اس نے اس پر ٹنگی ڈالی۔
 زرذبة و زرذمة: گلا گھوٹنا۔ الطعام: کھانے کو لگھانا۔
 الزرذمة: سر اور گلے کے درمیان کا گوشت یا حلق میں لگنے کی جگہ۔
 زرؤر. السزؤرؤر: زرور پرندہ کا آواز کرنا..... الرأجل: ہمیشہ زرؤرؤر پرندہ کو کھانا۔

..... بالمحان: اقامت کرنا۔
 الزرؤرؤر: ایک قسم کا پرندہ جو چڑیا سے بڑا ہوتا ہے۔ بعض ان میں بالکل کالے ہوتے ہیں اور بعض میں سفید جتنی ہوتی ہے۔ ج زرأبؤر و زرأبؤر۔
 الزرؤر والزرؤر: سرخ القہم تیز خاطر۔ ج زرأبؤر۔
 الزرؤرؤر: وہ جو زرؤرؤر پرندہ کے رنگ کا ہو۔
 زرط: (ض) زرطأ. اللقمة: لقمہ کو لگنا۔
 ذرع: (ف) زرغا و ايزقوع: یونا۔ ج انا انا الارض: جوتنا۔ ذرع المسه النبات: اگانا۔ کہا جاتا ہے "ذرع له بعد شقاوة" یعنی اس کو فقر و حاجت کے بعد مال و دولت حاصل ہوئی۔
 ذراع مزارعة: یونا..... فلانما: مٹائی پر معاملہ کرنا۔
 ازرع. السزوع: پتے لگنا۔ کھیت کا ٹٹا..... القوم: کھیتی کرنے پر قادر ہونا۔
 تزرع. السی السزیر: بدی کی طرف جلدی کرنا۔
 الزراع: فا۔ ج زارغون و زرأع: ایک کتے کا نام اور اسی وجہ سے کتوں کو "اولاد ذراع" کہتے ہیں۔
 الزرع: مصل۔ کھیت۔ اولاد۔ ج زرؤع۔
 السزرة: ج..... والسزرة والسزرة السزرة: کھیتی۔ کہا جاتا ہے "مفایہ هذه الارض زرعة" اس زمین میں کھیتی کے قابل کوئی جگہ نہیں ہے..... الزرعة: چکور کا پتہ۔
 الزرعة: کا شکاری۔ کھیت۔
 الزرعة: بوئی ہوئی چیز۔ کھیتی۔
 السزراع: بہت کھیتی کرنے والا۔ چغل خور (اس وجہ سے کہ وہ بھی لوگوں کے دلوں میں کینہ بو دیتا ہے) ج زرأغون و زرأعة۔
 السزراعة: زرأع: کامونٹ۔ کشت زار ج زرأعات۔
 الزربع: صرف بارش سے سیراب ہونے والی

ذرف: کھیتی۔ الذُرْبُوعُ: وہ پودہ جو کھیتی کرنے کے وقت گرے ہوئے دانے سے اُگ آئے۔ المُزْرَعَةُ وَالْمُزْرَعَةُ: کھیتی۔ ج: مزارع۔ المُزْرَعُوعُ: کھیتی کرنے کی جگہ۔ کشتزار۔ ذُرْفُ: (ن) ذُرْفَا: کودنا۔..... لُحْسِي الْكَلَامُ: زیادتی کرنا۔ جھوٹ بولنا۔..... ذُرُوفَا وَذُرَيْفَا: اِلَيْهِ: قریب ہونا۔ دیر لگانا۔ جلدی کرنا (ضد)	السَّرَّافَةُ وَالزَّرَافَةُ: وہ جگہ جہاں کھیت کیلئے پانی نکالا جائے۔ ج: زَرَّافَاتُ ذُرَّافَاتُ. السَّمْرَافُ وَالزَّرُوفُ وَالزَّرُوفُ. مِنَ النُّوقِ: تیز رفتار اونٹنی۔ ذُرْفَنُ: شَعْرَةٌ: بالوں کو زنجیر کی طرح بنانا۔ الزَّرْفَيْنِ: چھوٹی زنجیر۔ ج: زَرَّافَيْنِ. ذُرْقُ: (ض ن) ذُرْقَا: الطَّائِرُ: پرندہ کا بیٹ کرنا۔ ذُرْقَتْ عَيْنُهُ نَحْوِي: بگھیوں سے دیکھنا۔..... ذُرُقُ الطَّائِرِ: پرندہ کو چھوٹے تیز سے مارنا۔..... السَّرَجْلُ بَبْصَرِهِ: گھورنا۔..... السَّنَاقَةُ السَّرْحَلُ: اونٹنی کا کجاوہ پیچھے کی جانب ڈال دینا۔ ذُرْقِي: (س) ذُرْقَا: الرَّجُلُ: اندھا ہونا۔..... عَيْنُهُ: نیلگوں ہونا۔ آسانی رنگ کا ہونا۔ أَزْرَقْتُ: عَيْنُهُ نَحْوِي: آنکھ کا پھرنا اور سفیدی کا ظاہر ہونا۔..... السَّنَاقَةُ حَمَلُهَا: اونٹنی کا کجاوہ کو پیچھے کی جانب ڈال دینا۔ إِزْرَقُ إِزْرَقَا وَإِزْرَاقُ إِزْرِنَقَا: نیلگوں ہونا۔..... عَيْنُهُ نَحْوِي: بمعنی أَزْرَقْتُ عَيْنَهُ: إِسْرَاقِي: پیچھے ہٹنا۔ چٹ لینا۔ السَّنَهْمُ: آر پار ہونا۔ السَّرْقُ وَالزَّرْقَةُ: آسانی رنگ۔ نیلگوئی۔ الزَّرْقُ: کھر کے کچھ اوپر کی سفیدی۔ الزَّرْقَةُ: تعویذ کا مہرہ۔ السَّرْقُ: ایک شکاری پرندہ۔ ج: ذُرَّاقِي: گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی۔ تیز نظر والا۔ الآزْرَقُ: نیلگوں۔ مَوْنَتْ ذُرْقَاءُ: ج: ذُرْقُ. الْآزْرَقُ: باز۔ نَضَلُ أَزْرَقُ: چکیلا تیر کا پھل۔ مَاءُ أَزْرَقُ: صاف پانی۔ عِلْوُ أَزْرَقُ: سخت دُشْنُ آوَرِ: اس وجہ سے کہ رومیوں اور دیلمیوں کی آنکھیں نیلگوں ہوتی ہیں اور ان میں اور عربوں میں سخت دشمنی تھی۔ اس وجہ سے ہر سخت دشمن کو عدو ازرق کہتے تھے اور چونکہ تیز سے اور بھالے میں بھی نیلگوئی ہوتی ہے اس لئے ان پر بھی زُرْقُ کا اطلاق کرتے ہیں۔	الذُرْبُوعُ: وہ پودہ جو کھیتی کرنے کے وقت گرے ہوئے دانے سے اُگ آئے۔ المُزْرَعَةُ وَالْمُزْرَعَةُ: کھیتی۔ ج: مزارع۔ المُزْرَعُوعُ: کھیتی کرنے کی جگہ۔ کشتزار۔ ذُرْفُ: (ن) ذُرْفَا: کودنا۔..... لُحْسِي الْكَلَامُ: زیادتی کرنا۔ جھوٹ بولنا۔..... ذُرُوفَا وَذُرَيْفَا: اِلَيْهِ: قریب ہونا۔ دیر لگانا۔ جلدی کرنا (ضد) ذُرْفُ: (س) ذُرْفَا: السَّرْحَلُ: زخم کا اچھا ہونے کے بعد تازہ ہونا۔ ذُرْفَةُ: علیحدہ کرنا۔ دور کرنا۔..... الشَّيْ: زیادتی کرنا۔..... فِي الْكَلَامِ: کلام میں زیادتی کرنا اور جھوٹ بولنا۔..... الْقَوْمُ: جدا جدا کرنا۔..... السَّرْمَحُ فِيهِ: تیز ہونے کا کہا جاتا ہے "ذُرْفُ عَلِي السَّبِيحِي" وہ ساٹھ سے بڑھ گیا۔ أَزْرَفُ: آگے بڑھنا۔ جلدی کرنا۔ السَّرْحُ: زخم کا اچھا ہونے کے بعد تازہ ہونا۔ السَّنَاقَةُ: اونٹنی کو آسانی تیز کرنا۔..... السَّرَجْلُ: زرارہ جانور خریدنا (دیکھئے لفظ زرارہ) إِسْرَافُ: الْقَوْمُ: گھاس پانی کی تلاش میں جانا۔..... الرَبِيحُ: گزر جانا۔..... الشَّيْ: آر پار ہونا۔ الذَّرَافَةُ وَالزَّرَافَةُ وَالزَّرَافَةُ: ایک جانور کا نام جو اونٹ کے برابر ہوتا ہے اور اس کی اٹلی ٹانگیں لمبی اور پھیلی چھوٹی ہوتی ہیں اور اس کی گردن گھوڑے کی مانند اور کھال چیتے کی مانند ہوتی ہے اور اس کے دو چھوٹے چھوٹے سینک بھی ہوتے ہیں۔ ج: ذُرَّافِي ذُرَّافِي ذُرَّافَاتُ. ذُرَّافِي الزَّرَافَةُ: بہت چھوٹا۔ السَّرَافَةُ وَالزَّرَافَةُ: دس یا بیس آدمیوں کا گروہ۔ ج: زَرَّافَاتُ اور اسی سے ہے "طَلَّوْا اِلَيْهِ زَرَّافَاتُ وَوَحْدَانًا".
--	---	--

دینا۔ کنوئیں پر زرنوق لگانا۔ ویکھے
”زرنوق“۔

..... فَلَائِنَا اللَّيَاسُ: کسی کو لباس پہنانا۔

تَزْرَنْقُ: بالذَّيَاب: کپڑے پہننا..... الرَّجُلُ:
چھوٹی نہر سے اجرت پر آب کشی کرنا۔

الزُّرْنُوقُ: چھوٹی نہر۔ چلی کا دستہ۔

السُّرُّونُوقَانُ: کنوئیں کے من پر کے دو کھجے
جس میں چرٹی لگی ہوئی ہوتی ہے۔

الزُّرْنُوقَةُ: مہس۔ زیادتی۔ حسن کامل۔

الزُّرْنِيقُ: ہڑتال۔

زَّرَى (ض) زَرِيَا وَزَرِيَا وَزَرَايَةً وَمَزْرِيَةً
وَمَزْرَاةً وَأَزْرَى وَتَزْرَى. عَلَيْهِ عَمَلُهُ: کسی

کام پر عتاب کرنا۔ عیب لگانا۔ آزری
بِالْأَمْرِ: سستی کرنا۔ آزری بہ و آزرآہ: عیب

لگانا۔ حق گھٹانا۔

زَارَاهُ مَزَارَاةً: ایک دوسرے کو عتاب کرنا۔
إِذْخَرَى وَاسْتَزْرَى. ۵: حقیر سمجھنا۔

الزَّرِي: ناکارہ۔ ذلیل۔

المِزْرَاءُ: لوگوں کو عیب لگانے والا۔
رَطُّ: (ن) زَطُّا. الذُّبَابُ: مکھی کا جھنڈنا۔

الزُّطُّ: جاٹ (ہندوستان کی ایک قوم) واحد
رُطِيٌّ.

زَعَبُ: (ف) زَعْبًا. الإِنَاءُ: برتن کو بھرنے
..... القَبْرِيَّةُ: منگ بھری ہوئی اٹھانا۔

القَبْرِيَّةُ: پانی گرانہ..... السَّيْلُ: سیلاب کا
وادئ کو بھردینا..... الوادئ: وادئ کا بھرجانا

..... الشَّيْءُ: کاشا..... لَهُ مِنَ الصَّالِ:
زَعْبًا وَزَعْبَةً وَزَعْبَةً: مال کا کچھ حصہ دینا.....

الْمَرْأَةُ: جماع کرنا۔
زَعَبُ: (ف) زَعْبِيًّا. الْفَرَابُ: کائیں

کائیں کرنا۔
تَزَعَبُ: غضبناک ہونا۔ شاداں ہونا۔

..... فِي أَكْلِهِ وَشُرْبِهِ: بہت کھانا پینا۔ الْقَوْمُ
الصَّالِ: قوم کا مال میں سے اپنا اپنا حصہ لینا۔

إِزْوَعَبُ. الشَّيْءُ: کاش لینا۔
الزُّعْبَةُ وَالزُّعْبَةُ وَالزُّعْبُ: مال کا ایک

حصہ۔

الْأَزْعَبُ: پستہ قد۔ کمینہ۔ موٹا۔ مؤنث
رَّعْبَاءُ ج زُعْبٌ.

سَيْلٌ (رَّاعِبٌ وَرَعُوبٌ): وادئ کو بھرنے
والا سیلاب۔

الزَّاعِبُ: اچھا بہر۔
رَّعِيْبٌ. النَّحْلُ: شہد کی مکھیوں کی

بھینٹنا ہٹ۔
الزُّعْبُوبُ: پستہ قد کمینہ۔

زُعْبِقِي. الْقَوْمُ: پریشان و متفرق کرنا۔
..... الشَّيْءُ: جدا جدا کرنا۔

تَزْعَبُقِي. الشَّيْءُ مِنْ يَدِي: بکھر جانا اور متفرق
ہو جانا۔

زُعْبَلٌ: بڑے پیٹ اور پتلی گردن والا۔ بڑا
سانپ۔ گرگٹ۔ ڈول۔ روٹی کا پودہ۔ ج

زُعَابِلُ.
رَّعِيْبٌ: گدھے کا رنگینا۔

رَّعِيْبَةٌ: فَا. مَوْتُ رَّعِيْبٌ: جلدی کی
موت۔

رَّعْفَهُ (ف) رَّعْفًا وَأَرْعَفَهُ وَأَرْعَفَهُ: فوراً
مار ڈالنا۔ رَّعْفُ السَّجْرِ: رَّعْفٌ وَأَرْعَفَ عَلَيْهِ:

رَّحِي كَوْفُورًا مَارُؤُ النَّارِ. رَّعْفُ الْحَدِيدِ: زیادہ
کرنا اور جھوٹ بولنا۔

سَمُّ (رَّعْفًا): زہر قاتل۔
مَوْتُ (مَزْعَفًا): فوراً ہلاک کرنے والی

موت۔
سَيْفٌ مَزْعَفٌ: فوراً ہلاک کرنے والی تلوار۔

الزُّعُوفُ: ہلاکت کی جگہیں۔
السُّعُوفَةُ: پتھر جس کو کنوئیں کی تین میں ڈال

دیں اور اس پر بیٹھ کر کچھ وغیرہ صاف
کریں۔
رَّعْفَرَةٌ: زعفران سے رنگنا..... الطَّعَامُ:

کھانے میں زعفران ڈالنا۔
تَزْعَفَرُ: زعفران سے خوشبودار ہونا۔

الزُّعْفَرَانُ: زعفران۔ کیسر۔ ج زَعْفِرٌ.
رَّعْفَرَانُ الْحَدِيدِ: لوہے کا رنگ۔

رَّعْفَقِي. السُّعَافِقُ: بخیل۔ بدخلق۔ ج
رَّعَافِقُ.

السُّعْرُورُ: ایک درخت جس کا پھل سرخ
رنگ کا اور کھلی گول بڑی ہوتی ہے جس کی

وجہ سے مغز کم ہوتا ہے۔ واحد (رَّعْرُورَةٌ)

رَّعْلٌ رَّعْرُورٌ: بدخلق و بے خیر مرد۔ ج
رَّعْرُورٌ. الرَّعْرُورُ: گوبر وغیرہ جو اون میں
لگ جائے اور جم جائے۔
بَحْرٌ (رَّعْرُوقٌ): بہت پانی والا سمندر۔
رَّعْرُوعُهُ رَّعْرُوعَةٌ: سخت حرکت دینا۔
..... الإِبِلُ فِي السَّنِيِّ: ہانکنا۔
تَزْعَرُغُ: ہلنا۔
السُّعْرُوعَةُ: مہس۔ ج زَعَارِعُ. الرَّعَارِعُ:
زمانہ کے مصائب۔
رَّيْحٌ (رَّعْرُوعٌ وَرَّعْرُوعٌ وَرَّعْرُوعٌ وَرَّعْرُوعٌ
وَرَّعْرُوعَانٌ): آندھی۔ ہوا کا طوفان.....
جَوْحِي رَّعْرُوعٌ: تیز دوڑ۔
بَحْرٌ (رَّعْرُوقَةٌ): بہت پانی والا سمندر۔
رَّعْطٌ: (ف) رَّعْطًا: گلا گھونٹنا.....
الْحِمَارُ: گدھے کا رنگینا۔
السُّعْطُ: فَا. مَوْتُ رَّعْطٌ: جلدی کی
موت۔
رَّعْفَهُ (ف) رَّعْفًا وَأَرْعَفَهُ وَأَرْعَفَهُ: فوراً
مار ڈالنا۔ رَّعْفُ السَّجْرِ: رَّعْفٌ وَأَرْعَفَ عَلَيْهِ:
رَّحِي كَوْفُورًا مَارُؤُ النَّارِ. رَّعْفُ الْحَدِيدِ: زیادہ
کرنا اور جھوٹ بولنا۔
سَمُّ (رَّعْفًا): زہر قاتل۔
مَوْتُ (مَزْعَفًا): فوراً ہلاک کرنے والی
موت۔
سَيْفٌ مَزْعَفٌ: فوراً ہلاک کرنے والی تلوار۔
الزُّعُوفُ: ہلاکت کی جگہیں۔
السُّعُوفَةُ: پتھر جس کو کنوئیں کی تین میں ڈال
دیں اور اس پر بیٹھ کر کچھ وغیرہ صاف
کریں۔
رَّعْفَرَةٌ: زعفران سے رنگنا..... الطَّعَامُ:
کھانے میں زعفران ڈالنا۔
تَزْعَفَرُ: زعفران سے خوشبودار ہونا۔
الزُّعْفَرَانُ: زعفران۔ کیسر۔ ج زَعْفِرٌ.
رَّعْفَرَانُ الْحَدِيدِ: لوہے کا رنگ۔
رَّعْفَقِي. السُّعَافِقُ: بخیل۔ بدخلق۔ ج
رَّعَافِقُ.

زَعَقَ: (ف) زَعَقًا: چلانا، چیننا..... ہ وہ زَعَقَ بہ: ڈرنا..... بالذاتۃ: تیز چلا کر ہانکنا۔
 السَّرْبُحُ السَّرَابِ: ہوا کا مٹی کو اڑانا..... ہ الصَّقْرُبُ: پھوکا ڈانسا..... القِدْرُ: ہانڈی میں بہت نمک ڈالنا۔
 زَعَقَ: (ک) زَعَقَةً: پانی کا بے حد کھاری ہونا۔
 زَعِقَ: (س) زَعَقًا: شادماں ہونا..... وزَعِقَ: (ب) زَعِقًا: زَجُلًا: رات میں ڈرنا۔
 اِنزَعَقَ الفَرَسُ: آگے بڑھنا اور تیز چلنا۔
 اَزَعَقَهُ: ڈرنا خوف دلانا..... السَّيْرُ: چلنے میں جلدی کرنا..... القِدْرُ: ہانڈی میں بہت نمک ڈالنا۔
 السَّعِقُ: رات میں ڈرنے والا۔ شادماں جو کچھ گھبرایا بھی ہو۔
 الزَعَقَةُ: بیخ۔
 الزَعاقُ: بہت کھاری پانی جو بیابانہ جگہ کے۔
 الزَعُوْقَةُ: زَعاقُ: کا اسم۔
 الزَعاقُ: مِنَ النَّعِيْلِ: بہت اور تیز چلنے والا۔ گھوڑا پیچھے پیچھے چلاتے ہوئے جانوروں کو ہانکنے والا۔
 الزَعِيْقُ: خوفزدہ۔
 المِزْعَقُ: زمین کھودنے کا اوزار۔
 زَعَجَلَ: (س) زَعَلًا: شادماں ہونا..... مِنَ المَرَضِ وَغَيْرِهِ: تنگ دل و مضطرب ہونا۔
 اَزَعَلَهُ: شادماں کرنا۔ مِنَ مَكَايِبِهِ: ہٹانا۔
 تَزَعَلُ: شادماں ہونا۔
 الزَعَلُ وَالزَّعْلَانُ وَالْاِزْعِيْلُ: شادماں۔
 الزَّعَلُ: بھوک سے ہلبلانے والا۔
 زَعَمَ: (ف) زَعَمًا وَزَعَمًا وَزَعَمًا وَمَزَعَمًا: بیخ یا جھوٹ کہنا اور اکثر مشکوک یا ایسی چیزوں میں جس کے جھوٹ ہونے کا یقین ہوا استعمال کیا جاتا ہے (..... زَعَامَةً).....
 عَلَي الْقَوْمِ: سردار بننا۔
 زَعَمَ: (ف) زَعَمًا: بِالْمَالِ: کفیل ہونا۔
 ضامن ہونا..... اللَّيْنُ: دودھ مزیدار ہونے لگنا۔

زَعِمَ: (س) زَعَمًا: فِيهِ: لالچ کرنا۔
 اَزَعَمَ: الاْمْرُ: ممکن ہونا..... اللَّيْنُ: دودھ مزیدار ہونے لگنا..... اَلْيَسَهُ: فرمانبردار ہونا۔
 تَالَعَ: ہونا..... عَلَي الْقَوْمِ: سردار بننا۔
 الارْضُ: سبزی کا پھوٹنا..... اَهْلَانًا: اَزَعَمَهُ: المَالُ: مال کا ضامن بنانا۔
 زَعَمَهُ: بھیڑ کرنا۔
 تَزَعَمَهُ: جھوٹی باتیں بیان کرنا۔
 تَزَاعَمَ: الْقَوْمُ عَلَي الْاْمْرِ: ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ باہم غیر موثق باتیں کرنا۔
 الزَّعِيمُ: مِنَ الشَّوَاءِ: بہت چربی والا جس سے بھوتے ہوئے چربی آگ پر نپکے۔
 الزَّعْمَةُ: زَعَمٌ: کا اسم مرۃ۔ ج زَعَمَاتُ: کہا جاتا ہے "هَذَا لَا زَعْمَتَكَ" اور زَعَمَاتُكَ" یعنی یہی صحیح ہے اور میں تمہارا گمان نہیں خیال کرتا ہوں۔
 الزَّعْمِيُّ: جھوٹا۔ سچا۔ ضد۔
 الزَّعَامَةُ: مصل۔ شرف۔ سرداری۔ ہتھیار۔ زرہ۔ عمدہ مال یا اکثر مال۔ گائے۔
 الزَّعْمُومُ: گفتگو میں عاجز۔ چربی دار عورت۔ کم چربی والی عورت (ضد)۔
 الزَّعْمُومُ: گفتگو میں عاجز۔
 الزَّعِيمُ: ضامن۔ کفیل۔ سردار۔ رئیس۔ ج زَعَمَاءُ۔
 السَّزْعَمُ: مصل۔ لالچ کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "هَذَا اَمْرٌ مَزْعَمٌ" یعنی یہ امر غیر موثق ہے کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ "وهذا اَمْرٌ فِيهِ مَسْزَاعِمٌ" یہ ایسا امر ہے جس میں جھگڑے ہیں۔
 المِزْعَامَةُ: ساہب۔
 زَعَنْفَتِ: المَاشِطَةُ القُرُوسُ: مشاطہ کا دہن کو آراستہ کرنا۔
 الزَّعِيْفَةُ وَالزَّعْفَةُ: پست قدم دیا عورت۔ ہر چیز کا ایک حصہ۔ جسم کے اطراف مانند ہاتھ پیر کے۔ ردی۔ قبیلہ کا ایک کلڑا جو علیحدہ ہو یا دوسرے کے ساتھ مل جائے۔ کپڑے کا کلڑا یا تھپلا پھینا ہوا حصہ۔ مصیبت۔ ج

زَعَائِفُ السَّرْعَانِفِ: جھلی کے پر۔ ہر وہ جماعت جن کی کوئی ایک اصل نہ ہو۔
 زَعَائِرُ عُوْرُوْعَا: منصف ہونا۔ عادل ہونا۔
 زَعِبٌ: (س) زَعْبًا وَزَعْبًا وَاِزْعَابٌ الصَّبِيُّ او الفَرْحُ: بچہ یا چوزہ کا رواں لگانا۔ صفت (زَعِبٌ)
 اَزَعِبَ: الكِرْمُ: انگوڑی تیل میں پتے لگانے لگنا۔
 الزَّعْبُ: پردوں یا بالوں کے روئیں۔ واحد (زَعْبَةٌ)
 الزَّعْبَانِيُّ وَالزَّعْبَانِيَّةُ: جھوٹے روئیں۔ کہا جاتا ہے "مَاصِبْتُ مِنْهُ زَعْبَانِيَّةٌ" میں نے اس سے روئیں کے برابر بھی کچھ حاصل نہیں کیا۔
 الاَزْعَبُ: روئیں دار۔ مَوْنَتُ زَعْبَاءُ: ج زُعْبٌ: قظا کا چوزہ۔
 الزَّعْبَةُ: گلہری۔
 الزَّعْبُ: پست قدم۔
 زَعْبَرُ: القَوْبُ: روئیں دار ہونا۔
 الزَّعْبَرُ وَالزَّعْبَرِيُّ وَالزَّعْبَرِيُّ: رواں۔ کہا جاتا ہے "اَخَذَ الشَّيْءُ بِزَعْبَرِهِ" اس نے ساری چیز لے لی۔
 الزَّعْبَرَةُ: عِنْدَ القَامَةِ: رواں۔ کلمہ محرف ہے صحیح لفظ الزَّعْبُ ہے۔
 الزَّعْبُدُ: بکھن۔
 زَعَدُ: (ف) زَعْدًا: السِّقَاءُ: مٹک نچوڑنا..... فُلَاتَانًا: گلابانا..... البَعِيْرُ: اونٹ کا سخت ہلبلانا..... النَّهْرُ: دریا کا چڑھنا۔ موج مارنا..... ہ بالکلام: اکسانا۔ بھڑکانا۔
 اَزَعَدَتْ: السَّرَاةُ وَلَدَهَا: عورت کا بچہ کو دودھ پلانا۔
 الزَّعِيْدُ وَالزَّعِيْدَةُ: کھن جو مٹک کو دبانے سے اس کے مزے لگتے۔
 نَهَرُ (زَعَادٌ): بہت پانی والا چڑھا ہوا دریا۔
 المَزْعِيْدُ: غنبناک۔
 زَعَرَ: (ف) زَعْرًا: الشَّيْءُ: چھین لینا۔ زبردستی لینا..... الشَّيْءُ: بکثرت ہونا..... البَحْرُ: چڑھنا۔ موج مارنا۔

الزغور: من كل شئ: زيادتي - افراط -
 الزغار: كنبوا -
 زغوب: بنتا -
 الزغوب: بہت پانی - بغر زغوب و زغوبية:
 بہت پانی والا کنواں -
 زغورد زغردة: البعير: اونٹ کا پنے حلق
 میں آواز کو لاتے ہوئے بلبلانا -
 زغزغ: الكلام: باریک گفتگو کرنا - الشئ:
 چھپانا - بالرجل: ستر کرنا - ٹھٹھا کرنا -
 الزغوغ: سبک و چست آدمی -
 حسب نسب میں مطعون -
 الزغوغ: پستہ قد حقیر - ایک پرندہ -
 الزغوغية: عجم میں سے بعض لوگوں کی
 زبان -
 الزغوغية: ایک قسم کا کھانا جو گھی اور آٹے
 سے تیار کیا جاتا ہے -
 زغف: (ف) زغفنا: الماء: پانی بہت
 ہونا -
 فجی حدیثہ: بہت بولنا اور جھوٹ بولنا - کہا
 جاتا ہے "زغف كلاما كثيرًا" و "زغف
 لنا مالا كثيرًا" اس نے بہت بجواس کی اور
 اس نے ہم کو بہت مال دیا ہاں الرزمخ:
 نیزہ مارنا -
 اذذغف: الشئ: سارالے لینا -
 الزغف: مص - کشادہ اور لمبی زرہ - بادل جو
 برس چکا ہو اور ابھی گہرا ہوا ہو -
 ذوع (زغيف): کشادہ مضبوط اچھے حلتوں
 والی زرہ اور کہا جاتا ہے "ذوع زغف
 وزغف وأزغاف و زغوف"
 الزغف: جھپٹیاں - درخت کی کمزور
 شاخیں -
 الزغاف: بہت بولنے والا -
 الزغفة و الزغفة: کشادہ یا مضبوط زرہ -
 الجوزغف: جریس - بہت خواہش مند -
 زغفل زغفلة: جھوٹ بولنا -
 زغل (ف) زغلا: الماء: پانی بار بار گراتا
 الشراب: کلی کرنا الصبی اغمہ: بچے کا

دودھ پینا -
 أزغل: الماء: گراتا الاثم و لدها: بچے کو
 دودھ پلانا الطائر فرخہ: پرندہ کا بچے کو
 چوگا دینا الشراب: کلی کرنا -
 الزغل: دھوکا -
 الزغلي: دھوکا دینے والا -
 الزغلة: کلی کا پانی جو منہ سے پھینکا جائے -
 ایک مرتبہ پانی گرانے کی مقدار -
 الزغلول: بچہ - ہلکا پھلکا جلد باز مرد -
 زغاليل:
 تزغم: الجمل: اونٹ کا جھاگ کو اپنے
 جبروں میں پھرانا اور اسی سے ہے "تزغم
 الرجل" یعنی اس نے غضبناک ہو کر گفتگو
 کی -
 الزغوم و الزغوموم: گفتگو کرنے میں عاجز و
 درماندہ -
 زف: (ض) زفا و زفوقا: تیز دوڑنا
 الرفيح: ہوا کا چلنا (..... زفا و زفيفا) الطائر:
 پرندہ کا پر پھیلا کر اترنا -
 زف (ن) زفا و زفاسا: العروس إلى
 زوجها: دلہن کو شوہر کے پاس بھیجنا
 الزف: چکنا -
 آرف: العروس إلى زوجها: دلہن کو شوہر
 کے پاس بھیجنا الرجل: تیز دوڑنا ہ
 تیز دوڑنا -
 اذذف: الجمل: بوجھا اٹھانا العروس:
 دلہن کو شوہر کے پاس بھیجنا -
 استزفہ: السيل: سیلاب کو بہالے جانا -
 التسيؤ: سبک بنانا -
 الزف: چھوٹے چھوٹے پے -
 الزفف: پرندہ کے روئیں کا ایک پر ایک چپکا
 ہوا ہونا -
 الزفة: زف کا اسم مرہ - کہا جاتا ہے "جنتہ
 زفة أوزفتين" میں اس کے پاس ایک باریا
 دو بار آیا -
 الزفة: گروہ -
 الأزف: تیز رفتار - باریک پروں والا -

الزيف و الزقان و الزفاف: سبک تیز
 رفتار - الزفوف: ستر مرغ من النوق:
 عمدہ چال والی تیز رفتار اونٹنی - فوس
 زفوف: آواز دینے والی کمان -
 المزفة: پاگلی -
 زفت: (ن) زفتا: الاناء: بھرتا الرجل
 : غیظ میں ڈالنا - منع کرنا - دھنکارنا - تھکانا -
 کہا جاتا ہے "زفت الحديد في اذن
 الاصم" اس نے بہرے کے کان میں بات
 ٹھونس دی -
 زفت: السفينة: کشتی پر زفت ملنا -
 الزفت: تار کول جیسی ایک چیز جس کو کشتی
 وغیرہ پر ملا کرتے تھے -
 زفدن (ن) زفدا: الاناء: برتن بھرتا -
 فرسه شعيرا: گھوڑے کو بہت جوکھلانا -
 اذذفت: المال: سارالے لینا -
 زفوت (ض) زفرا و زفيرا: النار: آگ
 سے بھڑکنے میں آواز ٹھکانا الارض:
 نباتات اگانا - زفر الرجل: لمبی لمبی سانس
 لینا - الجمار: گدھے کا رنگنا شروع کرنا -
 وزفر الشئ زفرا: اٹھانا الماء: پانی
 کھینچنا -
 اذذفر: الشئ: اٹھانا -
 الزفر: بھاری بوجھ - مشک - مسافر کا
 سامان - جماعت یا دستہ فوج - ج اذفار:
 الزفر: درخت کے نیچے لگانے کی تھوٹی -
 الزفر: شیر - بہادر - سمندر - بہت پانی والا
 دریا - تختی - سردار - مشک کے اٹھانے کے
 لئے مضبوط آدمی - بہت عطیہ - دستہ فوج -
 الزفر: مص - مصیبت - گدھے کی آواز کی
 ابتداء اور انتہا کو الشہيق: کہتے ہیں -
 الزفرة الزفرة: لمبی سانس - گرم سانس -
 زفرة الدابة زفرتها: جانور کا پھولا ہوا پہلو -
 الزفرة: زفر الرجل أو الجمار: کا اسم ج
 زفترات: کبھی ضرورت شعری کی بنا پر فاکو
 ساکن کر کے زفترات: کہتے ہیں - فرسوس
 (أزفر): بڑے پہلوؤں والا گھوڑا - ج زفر:

الزُّرْقَانِ: آہستہ چلنے والا۔ ایک قسم کی چبوتیاں۔

زُقِفَ: (ف) زُقِفًا وَزُقَافًا. الذُّبُكُ: مرغ کا ککڑوں کوں کرنا..... الجَمَازُ: گدھے کا زور سے گز کرنا۔

زُقِفَ: (ن) زُقِفْنَا وَتَزُقِفُ وَازْدُقِفَ الشَّيْءُ: پھین لینا یا جلدی سے اُچک لینا اور اسی سے ہے "تَزُقِفُ الْكُرَّةَ بِالصُّوْلِجَانِ" وہ گیند کو بے سے جلدی لے گیا۔ تَزُقِفَ وَازْدُقِفَ اللُّقْمَةَ: لقمہ لگنا۔

الزُّقْفَةُ: ہر وہ چیز جو نکل لی جائے۔ ہر وہ چیز جو ہاتھ میں لی جائے۔

زُرُقِلَ: العِمَامَةُ: سر کے دونوں جانب کناروں کو لٹکانا۔

زُرُقِيْلُ: العِمَامَةُ: عمامہ کے نیچے سے نکل ہوئے بال۔

الزُّقْلُ وَالزُّوقِيْلُ: چور۔ لیرے۔ الزُّقِيْلَةُ: تنگ گلی۔

زُقِمَةَ: (ن) زُقِمَا وَازْدُقِمَةَ: لگنا۔ اَزُقِمَةَ الشَّيْءُ: لنگوانا۔

زُقِمَهُ: تھوہر کھلانا۔

تَزُقِمُ: لقمہ کرنا۔ تھوہر کھلانا۔ السُّلَيْنُ: دودھ بہت پینا۔

الزُّقُومُ: جہنم کے ایک درخت کا نام۔ تھوہر مہلک خوراک۔ ایک جنگلی گھاس جس کا پھول چینی کی مانند ہوتا ہے۔

الزُّقْمَةُ: زقم: کا اسم مرہ۔ طامعون۔

زُقِنَ: (ن ش) زُقِنَا. الجَمَلُ: بوجھ اٹھانا۔ اَزُقِنُهُ: اٹھانے میں مدد دینا۔

زُقَا يَزُقُو زُقُوا وَزُقَاءُ وَزُقِيًّا وَزُقِيًّا وَزُقُوا وَزُقِي (ش) زُقِيًّا. الطَّابِرُ: پرندہ کا چچھانا۔ صفت مذکر (زَاقِي) ج زَاقٍ: صفت مؤنث (زَاقِيَةٌ) ج زَاقِيٌ..... الصَّبِيُّ: بچکا بہت رونا۔

اَزُقَا: برلانا۔

الزُّقِيَّةُ: روپے پیسوں کا ڈھیر۔ الزُّقِيَّةُ: حج۔

جبکہ مکہ سے دہن کو سہ ماہ لے جائیں۔ الزَّاهِي: سبک تیز رفتار۔

الزُّفَيَانُ: مہس۔ ہلکان۔ ہلکا۔ نَافَةُ الزُّفَيَانِ: تیز رفتار اونٹنی۔

الْمَزْفِيُّ وَالْمَزْفِيَّةُ وَالْمَزْفِيُّ: ڈرایا ہوا۔ زُقِي (ن) زُقَا. الطَّابِرُ: پرندہ کا بیٹ کرنا.....

فَرْخُهُ: چوزہ کو چوگا دینا..... السُّجُشُ: مینڈھے کی کھال اتارنا۔ الجِلْدَةُ: بال کا ٹٹا۔

السُّقُ: منگ۔ زُقِي السُّجُدَادِ: لوہار کی بھٹی۔ ج اَزُقَا وَزُقَاقُ وَزُقَاقُ وَأَزُقِي.

السُّقُ: شراب۔ ج زُقْفَةُ. السُّقْفَةُ: چوزہ کو چوگا دینے والی فاختا کی۔

السُّقَاقِيُّ: گلی۔ تنگ راستہ (مذکر و مؤنث) ج اَزُقُهُ وَزُقَانُ. الزُّقَانُ وَبَحْرُ الزُّقَاقِي: جبرالٹر کی آبنائے۔

الزُّقَّةُ وَالزُّقْفُ: بین ذلی نامی ایک پرندہ۔ الزُّقَاقِيُّ: منگ بنانے والا۔

زُقِبَ (ن) زُقِبَا. الجُرْدُ فِي الحُجْرِ: چوہے کا سوراخ میں داخل ہونا۔ وَزُقِبَهُ فِي الحُجْرِ: داخل کرنا (لازم و متعدی)

زُقِبَ. المُمْكَا: آواز کرنا (مکاء ایک پرندہ ہے)

إِنزُقِبَ: الجُرْدُ فِي الحُجْرِ: چوہے کا سوراخ میں داخل ہونا۔

السُّقِبُ: تنگ راستہ۔ نزدیکی۔ کہا جاتا ہے "زَمِيَّةٌ مِّن زُقِبٍ" میں نے اس کو نزدیک سے تیر مارا۔

زُقِحَ: (ف) زُقِحَا وَزُقَاخَا. القِرْوَادُ: بندر کا آواز کرنا۔

الزُّقْرُ: شکر۔ (الصُّقْرُ: میں ایک لغت ہے۔ الزُّقْرِ: دوزخ۔) السُّقْرُ: میں ایک لغت ہے)

زُقِرِقَ زُقِرَقَةً وَزُقِرَاخَا. الطَّابِرُ: پرندہ کا بیٹ کرنا چچھانا..... فَرْخُهُ: چوزہ کو چوگا دینا..... الصَّبِيُّ: بچکا کرنا..... السُّجُلُ: آہستہ ہلانا۔ ہلکا ہونا۔

الزُّوْفَةُ: جماعت۔ دست فوج۔ مصیبت۔ تیر کے پر کے علاوہ یا پیکان کی جانب دو ٹٹ سے کم۔ کندھا اور اس کے گرد گردو۔ کمان۔

بُزَا سِرْدَارُ الزُّوْفَةِ الزُّوجِلِي: مرد کے آقارب و انصار۔ الزُّوْفَةُ البُنَاءُ: عمارت کا حکم۔ ج زَوَاوِيِرُ الزُّوَاوِيِرِ: پسلیاں۔ کہا جاتا ہے "فَرَسٌ شَدِيدُ الزُّوَاوِيِرِ" مضبوط پسلیوں والا گھوڑا۔

پانی لانے والی لوٹنیاں۔ اُغْمُرُ کی تیل اٹھانے کی ٹی۔ زَوَاوِيِرُ المَسْجِدِ: بزرگی کے اسباب۔

المُزْفَرُ وَالْمُزْدَفَرُ: لمبی سانس۔ سانس لینے کی جگہ۔

الْمُزْفُورُ: مِنَ الدُّوَابِّ: مضبوط جوڑوں والا جانور۔

زُقِرِفَ. السُّرْجُلُ: تیز چلنا۔ عمدہ چال چلنا..... السُّطَابِرُ: پر پھیلا کر اترنا..... السُّرِيحُ: الحشیش: ہوا کا گھاس کو حرکت دینا اور اس سے سائیں سائیں کی آواز لگنا.....

السُّرْحَبُ: سواری کے چلنے سے آواز سنائی دینا۔

زُقِنَ (ض) زُقِنَا: ناچنا۔ سخت دھکا دینا اور لات مارنا۔ کہا جاتا ہے "ذَنُوْثٌ مِّنْهُ فَنَزَقْنِي" میں اس سے قریب ہوا اس نے مجھے دھکا دیا۔

السُّزْنُ: چھت کے اوپر کا سا بان۔ السَّنَاقَةُ (الزَّافِيَةُ وَالزُّفُونُ): اَلْكَرِيُّ اوْمِي.

الزُّفَانُ: ناچنے والا۔

اللازْفَةُ: حرکت۔ رَجُلٌ اِلزْفَةُ: متحرک مرد۔ السُّزْفُونُ: ایک درخت جس کے پھول سفید ہوتے ہیں اور اس میں پھل نہیں آتا۔ نَافَةُ زُيْفُونُ: تیز رفتار اونٹنی۔

زُقِي يَزُقِي زُقِيًّا وَزُقِيَانًا. زُقِيَتِ القَوْسُ: آواز دینا..... السُّرِيحُ السُّحَابُ وَالتُّرَابُ: ہوا کا بادل یا مٹی کو اڑانا..... السُّرْجُلُ: بنفیسہ۔ جان دینا۔

اَزُقِي. الشَّيْءُ: ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا اور اسی سے ہے "اَزُقِيْتُ العُرْوَسَ"

زُكُّ: (ن) زُكُّا وَزُكُّمًا وَزُكُّيًّا
الشیخ: دوڑنے یا چلنے میں کمزوری کی وجہ سے قریب قریب قدم رکھنا۔ (..... زُكُّا)
الغلام: دوڑنا۔ السقویة: منگ بھرنا۔
یسلیحہ: بیٹ کرنا۔ زُكُّهُ الصَّاءُ: آسودہ کرنا۔ علی فلان غضبناک ہوتا۔
زُكُّ: السرجل: بوڑھا ہونا۔ بیماری کی وجہ سے کمزور ہونا۔
أزُک. علی الأمر: اصرار کرنا۔ بسوا یہ: خود رائے ہونا۔
تَرَکک: ساز و سامان لینا یا پھیرا اٹھانا۔
أزُدک. الزرع: سیراب ہونا۔
الزُک: فاختہ کا چوزہ۔
الزُکۃ: پتھار۔
الزُکۃ: تم وغصہ۔
زُكَاةُ (ف) زُكَاُ: مارنا۔ زُكَاةُ
الذراحم: نقد دینا یا جلدی نقد دینا۔ زُكَاةُ
حقہ: پورا کرنا۔ إلیہ: پناہ لینا۔
أزُدکَا: حقہ منہ: حق وصول کرنا۔
رَجُلٌ زُكَاٌ وَزُكَاَةٌ وَزُكَاةٌ: جلدی نقد دینے والا۔
المزُکَا: جانے پناہ۔
زُكِب (ن) زُكِبًا وَزُكُوبًا. الإناء: برتن کو بھرنا۔ المزُرة: عورت کا ایک ہی مروڑ میں بچہ کو جننا۔ المزُرة: جماع کرنا۔
إنسُکب. البحر: سمندر کے پانی کا پست زمین میں یا گڑھے میں داخل ہونا۔
الزُکبۃ: لڑکا۔ نطفہ۔
زُکْت (ن) زُکْتًا وَزُکْتُ وَزُکْتُ. الإناء: برتن کو بھرنا۔
أزُکْت. المزُرة بغلام: لڑکے کو جننا۔
السزُکُوت: انڈوں سے بھری ہوئی بڑی۔ بھرا ہوا ٹمبلین۔
زُکْسَر (ن) زُکْسَرًا وَزُکْسَرًا. الإناء: برتن کو بھرنا۔
زُکْرٌ وَتَزُکْرٌ. الإناء: برتن کا بھر جانا۔
السزُکْسرة: شراب وغیرہ کے لئے چمڑے کا

برتن۔ ج زُکْرُ.
زُکْسَر (ن) زُکْمًا وَزُکْمَةً: بٹلائے زکام ہونا۔ القویة: منگ بھرنے۔ زُکْمَتْ بہ اُمُّہ: جننا۔
زُکِم: زکام زدہ ہونا۔ صفت (مَزُکُوم)
الزُکْمَة: زکام۔ اولاد کہا جاتا ہے "إفلاان زُکْمَة سُوِّی" فلاں کی اولاد غیر صالح ہے۔
الزُکْمَة: اجد۔ آخری بچہ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ زُکْمَة وَلَدِ ابْنِہ" وہ اپنے باپ کا آخری بچہ ہے۔
زُکِن (س) زُکِنًا. الأمر: تاز جانا۔ سمجھنا۔ گمان کرنا۔ کہا جاتا ہے "زُکِنْتَ أَنْهُ رَجُلٌ سُوِّی" میں نے جانا کہ وہ بڑا آدمی ہے۔ جنہ عداوة: کسی کی دشمنی کا علم ہونا۔ (..... زُکُونا) إلیہ: پناہ لینا۔ مل جل جانا۔
زُکِن: گمان کرنا۔ عَلَیہ: مشتہر کرنا۔
زُکِنَہ: ایک دوسرے کے قریب ہونا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا الخِیشُ یُزَکِنُ الألفین" یہ لشکر دو ہزار کے قریب ہے۔ ہ: قریب وہم نشین ہونا۔
أزُکِنہ. الأمر: جتنا۔ سمجھنا۔ الشئ: صحیح گمان کرنا۔
الزُکَانَة وَالزُکَانِیَة: صحیح گمان۔
رَجُلٌ زُکِنٌ: سمجھدار مرد۔
زُجَلٌ (زُکِن): اچھی یادداشت والا مرد۔
زُکَا یَزُکُوزُ کُکَاةً وَزُکُواً وَزُکِبَ (س)
زُکِبَ. السزُوع: بڑھنا۔ السزُجُل: نیک و صالح ہونا۔ خوش عیش ہونا۔ زکی ہونا۔
الأرض: عمدہ ہونا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا لایزُکُوبک" یہ تمہارے لائق نہیں۔
زُکِبی: بڑھنا۔ پیاسا ہونا۔
ه اللہ: نشوونما کرنا۔ پاک کرنا۔ صالح بنانا۔
زکوٰۃ لینا۔ زُکِبی لہ: زکوٰۃ ادا کرنا۔
نفسہ: خود ستا کرنا۔
أزُکِبی. السزُوع: بڑھنا۔ ه اللہ: نشوونما کرنا۔
تَزُکِبی: صدقہ ادا کرنا۔ زکی ہونا۔ الشئ:

بڑھنا۔ زیادہ ہونا۔
السزُکَا: جفت عدد۔ کہا جاتا ہے "أخسَا هَذَا ام زُکَا" یہ طاق ہے یا جفت۔
السزُکَاة: چیز کا عمدہ حصہ۔ زکوٰۃ۔ صدقہ۔ پاکیزگی۔ ج زکوٰۃ و زکوات۔
السزُکِبَ سَئی: کا مصدر۔
السزُکِبی: فاعل۔ عمدہ نشوونما پانے والا۔ ج زُکَاة۔
السزُکِبی: اچھی نشوونما پانے والا۔ ج اُزُکِبَا:
مؤنث زُکِبَا: کہا جاتا ہے "أرضٌ زُکِبَا"
عمدہ زر نیز زمین۔
زَل (س) زَلَاً وَزَلَّلاً وَزُلُولًا وَزَلِیلاً وَمَزَلَّةً وَزَلِیلاً: پھسل کر گرنے۔
عن الحق أو الصواب: پھر جانا۔ غمروہ: گزر جانا۔ (زَلٌّ زَلِیلاً زُلُولًا): جلدی گزرتا۔
زَلٌّ زُلُولًا: الیذهبہم: کم وزن ہونا۔ صفت (زَالَ) ج زَوَالٌ: کہا جاتا ہے "دراہم زَوَالٌ" کم وزن والے درہم۔
زَلٌّ: (س) زَلَّلاً: یکے سرین والا ہونا۔ صفت (أَزَلٌّ): مؤنث (زَلَاء). ج زَلٌّ.
أزَلَّة: پھسلانا۔ لغزش کرنا۔ کہا جاتا ہے "أَزَلَّ إلیہ نعمة" اس نے اس کے ساتھ بہتر سلوک کیا اور نعمت دی۔ و"أَزَلَّ إلیہ مِن حَقِہ شینفا" اس نے اس کو اپنے حق میں سے کچھ دیا۔ "أَزَلَّہ السی القوم" اس نے اس کو قوم کے سامنے پیش کیا۔
أَسَزَلَّة: پھسلانا۔ لغزش کرنا۔
السزُلُّ: پھسلنے کی جگہ (مذکر و مؤنث) کہا جاتا ہے "مکانٌ زُلٌّ وَأَرْضٌ زُلٌّ"
السزُلُّ: مصل۔ گناہ کا ارتکاب۔ کہا جاتا ہے "أَسْتَغْفِرُ اللہَ مِنْ زُلُّی" میں اللہ سے اپنے ارتکاب گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔
پھسلنے کی جگہ (مذکر و مؤنث) کہا جاتا ہے "فی میزابه زلل" اس کے ترازو میں نقصان ہے۔
السزُلَّة: زَلٌّ: کا اسم مرۃ۔ ایک مرتبہ کرنا۔

<p>الارض : بھونچال لانا ہ : ڈرانا خوف ولانا الاہل : اونٹ کوختی سے ہانکنا۔ نززلت۔ الارض : بھونچال ہونا۔ نفسہ : موت کے وقت جان کا گھونگرہ میں بولنا۔</p>	<p>الزلوج : تیز رفتار سہم زلوج : کمان سے بھسلنے والا تیز۔ قدح زلوج : ہاتھ سے پھسل جانے والا پیالہ۔ عقبہ زلوج : دور دراز کی گھاٹی۔ الزلج : چکنی چٹانیں۔</p>	<p>گناہ۔ دلیر۔ دلہن۔ خوراک جو دوست یا رشتہ دار کے دست خوان سے اٹھایا جائے۔ ج زلات الزلۃ : جھیلے پتھر واحد زل۔ الزلۃ : اسان۔ دم۔</p>
<p>الزلزلۃ : بھونچان۔ ج زلازل۔ الزلزل : بھونچان۔ ہونک چیزیں۔ الزلزل : ماہر چینی۔ نقارچی۔ غلام زلزل : ہلکا پھلکا لڑکا۔ الزلزل : سامان خانہ۔</p>	<p>ناقۃ (زلجی وزلیجہ) : تیز رفتار اونٹنی۔ الزلج والیج والیج والیج والیج : ایک قسم کا تالا جو بغیر جی کے کھل جاتا ہے۔ الزلج : کم تھیل قوم میں اچھی آدمی۔ بے مروت۔ ہر چیز کا گھٹیا۔</p>	<p>ماء زلال و زلزل و زلزل و زلال : صاف بیٹھا خوشگوار پانی۔ الزلال : بہت بھسلے والا۔ الزل : تیز رفتار۔ ہلکے سرینوں والا۔ مؤنث زلۃ قوس زلاء : کمان جس سے تیر جلد نکل جائے۔</p>
<p>الزلزل : سبک ظریف۔ سکی۔ جنگ و یدی۔ زلع (ف) زلعا : الشی : فریب سے چھیننا۔ رجلہ : جلانا السماء من البئر : پانی نکانا۔</p>	<p>زلع (ف) زلعا و زلعا : پھٹنا۔ الزلع : باطل۔ کہا جاتا ہے "امر زلعی" امر باطل۔ الزلع : بڑے کشادہ پیالے۔ زلع : غنہ۔ پھسلنا۔</p>	<p>المزلۃ والمزلۃ : بھسلنے کی جگہ۔ ج مزل : المزل : ف۔ بہت بھلائی کرنے والا۔ زلب : (س) زلبا : بے لازم رہنا۔ چپٹا رہنا۔ جدا نہ ہونا۔</p>
<p>راسہ : سر پھاڑنا۔ تم کہتے ہو "زلعت لہ من عالی زلعة" میں نے اپنے مال میں سے ایک حصہ دیا۔ زلعت : (س) زلعا و زلوعا و زلعت۔ قدمہ : قدم کے ظاہر یا باطن کا پھٹنا۔ کفہ : اوپر سے پھٹنا۔ السجرح : خراب ہونا۔ زلع زلعا : پرکا گر جانا۔</p>	<p>زلع : زلحف و زلحف : علیحدہ کرنا۔ زلع : زلحف و زلحف : علیحدہ ہونا۔ الزلحف : کچھوا (سلحفہ کی تحریف ہے) الزلحف : ہلکا پھلکا مرد۔ الزلحف : پھلکا چپائی لگن۔</p>	<p>الزلبۃ : لقمہ۔ تیر۔ الزلبۃ : چلبلی۔ زلع : (ض) زلجا و زلجا و زلجانا : تیزی سے چلنا۔ زلع : (ن) زلجا و زلج : الباب : دروازہ کو مزلاج سے بند کرنا (دیکھئے مزلاج)</p>
<p>زلع : (ن) زلجانا : فلانا آگے ہونا۔ زلع : (س) زلوجا و زلج : بھسلنا اور اسی سے مزلج ہے۔ ان سواروں کو کہتے ہیں جن میں پیسے نہیں ہوتے اور برف پر پھسلتی ہیں۔ مزلاج : زلج الکلام من فیہ : بات کا منہ سے نکل پڑنا السماء عن الخجرۃ : پانی کا حلق سے پیٹ میں اتر جانا۔ زلج : الکلام : لوگوں میں مشہور کرنا۔ غیشہ : تھوڑی سی چیز پر زندگی بسر کرنا۔ زلج : الشی : بھسلنا۔ کہا جاتا ہے "زلج السہم عن القوس" تیر کمان سے پھسل گیا۔ النیلۃ : بنیڈینے پر اصرار کرنا۔ مکان زلج و زلج و زلج : بھسلنے کی جگہ۔ الزلج : ف۔ مسیبتوں سے نجات پانے والا۔ بہت پینے والا۔ السہم زلج : تیر جو زمین پر پھسلتا ہوا جائے۔</p>	<p>زلع : (ض) زلخا و زلخا : الزجل : چلنے میں آگے ہونا رجلہ : پھسلنا۔ زلع : (ض ن) زلخا : فلانا بالزلیج : بھونکنا راسہ : زخمی کرنا۔ زلعہ : چکنا و بھوار کرنا۔ زلع : الباب : دروازہ کو مزلاج سے بند کر دینا۔ (دیکھئے مزلاج) زلع : بھسلنا۔ مکان (زلع و زلج) : بھسلنے کی جگہ۔ الذلوج : تیز رفتار۔ بستر زلوج : کنواں جس کے من پر پھسلن ہو۔ الزلخۃ : بچوں کے بھسلنے کی جگہ۔ زلذب زلذبۃ : اللقمۃ : لقمہ لگانا۔ زلز : (س) زلوا : بے قرار ہونا۔ الزلو والزلو : سامان خانہ۔ آنے کا راستہ۔ زلزل زلزلۃ و زلزل و زلزال و زلزال اللہ</p>	<p>زلع : (ن) زلجانا : فلانا آگے ہونا۔ زلع : (س) زلوجا و زلج : بھسلنا اور اسی سے مزلج ہے۔ ان سواروں کو کہتے ہیں جن میں پیسے نہیں ہوتے اور برف پر پھسلتی ہیں۔ مزلاج : زلج الکلام من فیہ : بات کا منہ سے نکل پڑنا السماء عن الخجرۃ : پانی کا حلق سے پیٹ میں اتر جانا۔ زلج : الکلام : لوگوں میں مشہور کرنا۔ غیشہ : تھوڑی سی چیز پر زندگی بسر کرنا۔ زلج : الشی : بھسلنا۔ کہا جاتا ہے "زلج السہم عن القوس" تیر کمان سے پھسل گیا۔ النیلۃ : بنیڈینے پر اصرار کرنا۔ مکان زلج و زلج و زلج : بھسلنے کی جگہ۔ الزلج : ف۔ مسیبتوں سے نجات پانے والا۔ بہت پینے والا۔ السہم زلج : تیر جو زمین پر پھسلتا ہوا جائے۔</p>
<p>زلعہ : کسی کا حق کاٹ لینا الشجرۃ : درخت کاٹنا۔ الزلعۃ : خراب شدہ زخم۔ الزلوع : بھٹی ہوئی ایزویوں والا۔ الزلوع : چھوٹی کوڑیوں کی ایک قسم۔ الزلوع : پھٹے ہوئے بیروں والا۔ الزلع : السحاب : گہرا گہرا۔ سئل (مزلع) : بڑا سیلاب۔ زلع : (ن) زلوعا : السجم : ستارہ طلوع ہونا الناز : آگ کا بلند ہونا۔ زلع : رجلہ : پھٹنا۔ (جیدلت زلعت</p>	<p>الزلع : (ض) زلخا : فلانا بالزلیج : بھونکنا راسہ : زخمی کرنا۔ زلعہ : چکنا و بھوار کرنا۔ زلع : الباب : دروازہ کو مزلاج سے بند کر دینا۔ (دیکھئے مزلاج) زلع : بھسلنا۔ مکان (زلع و زلج) : بھسلنے کی جگہ۔ الذلوج : تیز رفتار۔ بستر زلوج : کنواں جس کے من پر پھسلن ہو۔ الزلخۃ : بچوں کے بھسلنے کی جگہ۔ زلذب زلذبۃ : اللقمۃ : لقمہ لگانا۔ زلز : (س) زلوا : بے قرار ہونا۔ الزلو والزلو : سامان خانہ۔ آنے کا راستہ۔ زلزل زلزلۃ و زلزل و زلزال و زلزال اللہ</p>	<p>زلع : (ن) زلجانا : فلانا آگے ہونا۔ زلع : (س) زلوجا و زلج : بھسلنا اور اسی سے مزلج ہے۔ ان سواروں کو کہتے ہیں جن میں پیسے نہیں ہوتے اور برف پر پھسلتی ہیں۔ مزلاج : زلج الکلام من فیہ : بات کا منہ سے نکل پڑنا السماء عن الخجرۃ : پانی کا حلق سے پیٹ میں اتر جانا۔ زلج : الکلام : لوگوں میں مشہور کرنا۔ غیشہ : تھوڑی سی چیز پر زندگی بسر کرنا۔ زلج : الشی : بھسلنا۔ کہا جاتا ہے "زلج السہم عن القوس" تیر کمان سے پھسل گیا۔ النیلۃ : بنیڈینے پر اصرار کرنا۔ مکان زلج و زلج و زلج : بھسلنے کی جگہ۔ الزلج : ف۔ مسیبتوں سے نجات پانے والا۔ بہت پینے والا۔ السہم زلج : تیر جو زمین پر پھسلتا ہوا جائے۔</p>

تیر۔ الْمُزَلَّمُ وَالْأَزْلَمُ: کئے ہوئے کان والا۔ الزَّلْمَاءُ: الْأَزْلَمُ: کاموٹ۔ مادہ شکر۔ پھاڑی بکری۔ عمدہ بنایا ہوا تیر۔ زَمَّةٌ: (ن) زَمًا: باندھنا..... القرينة: مشک بھرتا۔ زَمَّ البعيرُ بَانْفِهِ: تاک میں تکلیف کی وجہ سے سر اٹھاتا..... الرَّجُلُ بِرَأْسِهِ: سر بلند کرتا..... بَانْفِهِ: تکبر و گردن کشی کرتا الْقِسْمُ: رفتار میں قوم سے آگے بڑھنا (وَزَمَّمَهُ) الْجَمَالَ: اونٹ کے ٹکیل ڈالنا۔ زَمَّ النَّعْلُ: جوتہ میں تسمہ لگانا..... الذئبُ السَّخْلَةُ: بھڑیے کا بکری کے بچے کو سراونچا کر کے لے جانا۔ زَمَّتْ (ن) زَمًّا: القرينة: مشک کا بھرتا نَابُ البعيرِ: اونٹ کے دانت لگانا۔ زَمَمًا الزُّنُوزُ: بھڑ کا بھجھنا۔ أَزَمَّ النعلُ: جوتہ میں تسمہ لگانا۔ زَامَ مَرَامَةٌ: تکبر کرتا۔ زَامَتْنَا فَلَانًا: مقابلہ کرتا۔ إِنزَمَّ: بندھنا۔ إِزَمَّ: تکبر سے سر بلند کرتا..... الذئبُ السَّخْلَةُ: بھڑیے کا بکری کے بچے کو سر بلند کر کے لے جانا۔ الزَّمَامُ: جس سے کوئی چیز باندھی جائے۔ مہار۔ باگ۔ ٹکیل۔ لگام۔ نَزَامَةٌ: زَمَامُ النعلُ: جوتے کا تسمہ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ زَمَامُ قَوْمِهِ" وہ اپنی قوم کا سردار و چودھری ہے۔ و"هُوَ زَمَامُ الْأَمْرِ" یعنی اس پر کام کا دار و مدار ہے۔ و"الْقَوَا فِي يَدِهِ زَمَامُ الْأَمْرِ" لوگوں نے اپنا معاملہ اس کے ہاتھ میں دے دیا کہ جس طرح چاہے فیصلہ کرے۔ و"هُوَ عَلَى زَمَامِ أَمْرِهِ" وہ اپنے کام کے پورا ہونے کے قریب ہے۔ و"هُوَ يَصْرِفُ أَرْمَةَ الْأُمُورِ" وہ جس طرح چاہتا ہے امور میں تصرف کرتا ہے۔ الزَّمَامُ: فَارَسَجَلُ زَامٍ: گھبرانے والا مرد زَمَمٌ: کہا جاتا ہے "فَارَسَجَلُ مِنْ قَارِهِ (زَمَمٌ):	کچھ نہ ہو۔ الزَّلِقُ: وہ شخص جس کو جماع کرنے میں دخول سے پہلے انزال ہو جائے۔ الزَّلِقَةُ: پکنی چٹان۔ آئینہ نَاقَةُ (زَلُوقُ): تیز رفتار اونٹنی۔ عَقِبَةُ زَلُوقٍ: دور دراز گھائی۔ الزَّلِقُ: ناتما مگر ہوا بچہ۔ الزَّلِقُ: ایک قسم کا شفتالو۔ واحد زَلِقَةٌ. المزلاق: ایک قسم کا تالا جو بغیر سنجی کے کھل جاتا ہے۔ ناتما مگر بچہ گرانے والی گھوڑی۔ المزلق والمزلقه: پھسلن کی جگہ۔ الزَّلِقُومُ: کلا۔ زَلَمَ (ن) زَلَمًا: خطا کرتا..... الْإِنَاءُ: برتن بھرتا..... الْإِنْفُ: تاک کا ٹانہ..... الْعَطَاءُ: کم دینا۔ زَلَمَةٌ: نرم کرتا۔ ہموار کرتا..... الرَّحِي: پھل کی گھمانا اور کناروں سے پکڑنا..... الْعَطَاءُ: کم دینا..... الْغَدَاءُ: بکری خوراک دینا۔ إِزْلَمَ الشئُ: کاٹنا۔ جڑ سے کاٹنا۔ إِزْلَامُ إِزْلَمًا: الشئُ: سیدھا کھڑا ہونا الْقِسْمُ: جلدی کوچ کرتا۔ إِزْلَامَتِ الضَّحِي: چاشت کے وقت کاروش ہونا۔ الزَّمَمُ: کھر یا اس کا پھیلنا۔ بے پر کا تیر۔ نَج أَزْلَامُ: فال نکالنے کا تیر۔ الزَّمَمُ: ایک قسم کی بوٹی جس کے پھل پھول نہیں ہوتے اور اس کی جڑیں زمین کے بہت اندر اور گرہ دار ہوتی ہیں جس میں چوڑے تخم ہوتے ہیں اور عوام کے نزدیک حب العزیز کے نام سے مشہور ہے۔ الزَّمَمَةُ وَالزَّمَمَةُ وَالزَّمَمَةُ: ہیئت وقد کہا جاتا ہے "هُوَ الْعَبْدُ زَلَمَةٌ" وہ غلام کے مشابہ ہے۔ الزَّمَمَةُ: بکری کے کان کا ٹانہ ہوا کھڑا جو لگتا رہے۔ زَلَمَةٌ: الْإِنْبِيقُ عِنْدَ الْعَامِيَةِ: ٹوٹی۔ فصیح لفظ ٹیل ہے۔ الْمُزَلَّمُ: پستہ قد۔ سبک و چست۔ ظریف الْمُزَلَّمُ وَالزَّلِيمُ: مِنْ السِّهَامِ: عمدہ بنا ہوا	(ہے) إِزْلَعِبُ الْفَرْخُ: چوڑہ کے پر لگانا۔ الشَّعْرُ: موٹنے کے بعد اگنا۔ زَلَفَ: (ن) زَلَفًا وَزَلْفًا وَزَلْفًا وَزَلْفًا وَإِزْدَلَفَ: آگے ہونا قریب ہونا۔ زَلَفَ: (ن) زَلَفًا وَزَلْفًا: الشئُ: آگے کرتا۔ زَلَفَ فِي الْكَلَامِ: زیادہ کرتا۔ أَزْلَفَهُ: نزدیک کرتا..... الْإِشْيَاءُ: جمع کرتا الدليلُ القومُ: رہبر کا قوم کو آگے بڑھنے پر راہنمائی کرنا۔ الزلف والزلف والزلْفى: نزدیک۔ درجہ۔ مرتبہ۔ الزلف: باغ۔ الزلفه: نزدیک۔ درجہ۔ مرتبہ۔ رات کا ایک حصہ۔ بڑا پیالہ۔ نَج زَلْفًا وَزَلْفًا وَزَلْفًا: اور بقول بعض الزلف: بمعنی رات دن ملنے کے اوقات۔ الزلفه: بھرا ہوا حوض۔ پینے۔ کپڑے دھونے کا ٹشت۔ بڑا پیالہ۔ پکنا پتھر۔ سخت یا جھاڑودی ہوئی زمین۔ باغ۔ نَج زَلْفًا العقبه (الزلف): دور دراز گھائی۔ المزلفه: آبادی جو بیابان اور کشت زار کے درمیان ہو۔ نَج مَزَلْفًا. المَزَلْفُ: کوچ کرنے کی جگہیں۔ واحد مَزَلْفَةٌ. زَلَفَتِ: (س) وَزَلَفَتْ (ن) زَلْفًا. الْقَدَمُ: قدم پھسلنا۔ بِمَكَانِهِ: ملول ہو کر علیحدہ ہونا۔ زَلَفَهُ: (ش) زَلْفًا وَزَلْفَهُ وَإِزْلَفَهُ: پھسلنا..... عَنْ مَكَانِهِ: دور کرتا۔ علیحدہ کرتا..... رَأَسَهُ: سر موٹنا۔ زَلَفَ الْمَوْضِعَ: بھٹنے والی جگہ بنانا۔ زَلَفَ بَدَنَهُ: بدن پر تیل لگانا۔ أَزْلَفَهُ وَزَلْفَهُ بَبَصْرِهِ: غصہ کی وجہ سے تیز نظر سے دیکھنا۔ إِزْلَفْتُ الْفَرَسَ: گھوڑی کا ناتما مگر بچہ گرانہ۔ تَسَلَّقَ: اس طرح بنا سنورنا کہ چہرے کی روشنی بڑھ جائے۔ الزَّلِقُ وَالزَّلِقُ وَالزَّلِقُ وَالزَّلِقَةُ: پھسلن کی جگہ۔ أرض زَلِقٌ: پکنی سپاٹ زمین جس میں
--	---	---

میرا گھر اس کے گھر کے قریب ہے۔ و"أَمْرٌ الْقَوْمِ زَمَمٌ" قوم کے معاملے قریب قریب ہیں۔ و"وَجْهِي زَمَمٌ بَيْنَهُ: میرا چہرہ اس کے گھر کے مقابل ہے۔

الزَّمَامُ: اونچی گھاس۔

الزَّمِيمُ: مبینے کے آخر کا چاند۔

زَمْتُ: (ک) زَمَمْتُ وَتَزَمْتُ: سنجیدہ و صاحب وقار ہونا۔ صفت (زَمِيْتُ) ج زَمَمْتُ و (زَمِيْتُ)

زَمَمْتُ (س) زَمَمْتُ: گلا گھونٹنا۔

زَمَجَ: (ن) زَمَجًا: القَرْيَةَ: مشک بھرنا۔ عَلَيْهِمْ: بغیر بلائے ہوئے آ کر کھانا۔

زَمِجَ: (س) زَمِجًا: غَضَبًا: ہونا۔ صفت (زَمِجَ) کہا جاتا ہے اخَذَهُ (بِزَمِجِهِ): یعنی اس نے سارے لے لیا۔

الزَّمَجُ: عقاب سے چھوٹا ایک سرخ رنگ کا شکاری پرندہ۔ ج زَمَمِجٌ: زَمَجَ الْمَاءُ: ایک آبی پرندہ جو صرف پھلی کھاتا ہے۔

الزَّمِجِيُّ: پرندہ کی دم کی جڑ۔

زَمِجَةُ الظِّلِيمِ: شتر مرغ کی چونچ۔

الزَّمَمِجُ: غضبناک۔

زَمَجَرُ زَمَجْرَةَ: شور مچانا (.....) وَتَزَمَجَجُوا: الاسْتَدُّ: شیر کا چنگھاڑنا۔

إِزْمَجَرٌ: آواز کرنا۔

الزَّمَجْرَةُ: موص۔ بانسری۔ زَمَجْرَةَ كُلِّ شَيْءٍ: ہر چیز کی آواز۔ ج زَمَجِرٌ وَزَمَجِيرٌ: الزَّمَجُ: الزَّمَجُ: کمینہ۔ پست قدم بد صورت۔ کالے رنگ کا۔ بد صورت و شری۔

الزَّمِجُ: پھوڑا۔

زَمَجَ: (ف) زَمَجًا: تکبیر کرنا۔ صفت (زَمِجَ) ج زَمَجٌ: عَقِبَةُ (زَمَجٌ وَزَمُوحٌ): دو دروازے و تخت گھائی۔

زَمَجِرٌ: النَّمْرُ: جیسے کا غصہ سے دھاڑنا۔ (العُشْبُ): جگنو والا ہونا اور بڑھنا۔ (.....) (وَالزَّمَجِرُ): الصَّوْتُ: آواز کا تیز ہونا۔

تَزَمَجَرُ: النَّمْرُ: جیسے کا غضبناک ہونا اور

وہاڑنا۔

الزَّمَجِرُ: بڑی بانسری۔ بہت گنجان درخت۔ ج زَمَجِرٌ: زَمَجِرٌ: عالی مرتبہ مرد (.....) (وَالزَّمَجِرِيُّ): کھوکھلی ہڈی۔

الزَّمَجْرَةُ: زانیا عورت۔ زَمَجْرَةُ الشَّبَابِ: بھر پور جوانی (.....) الشَّجَرِ: درخت کا گنجان ہونا۔

الزَّمَجِيرُ: تھوڑا۔

زَمَزَمَ: (ض ن) زَمَزَا وَزَمَزَا: بانسری بجانا (.....) بِالسَّحَابِ: بات پھیلانا (.....) (زَمَزَا) القَرْيَةَ: مشک بھرنا (.....) فَلَانًا يَفْلَانُ: اُكْسَانًا: کاناز مَرَضٍ (ض) زَمَرَانًا: الظَّنِّي: ہرن کا بھاگنا۔ بد کنار (.....) (وَمَزَارًا) النَّعَامِ: شتر مرغ کا آواز کرنا۔

زَمِرٌ: (س) زَمِرًا: کم بالوں والا ہونا۔ بے مروت ہونا (.....) الشَّاةُ: کم اون والی ہونا۔

زَمَرٌ: بانسری بجانا (.....) القَرْيَةَ: مشک بھرنا۔

إِزْمَارٌ: غصہ سے سرخ آنکھوں والا ہونا۔

إِسْتَمَزَمَ: الرَّجُلُ عِنْدَ الْهَوَانِ: ذلت کی وجہ سے متقیض ہونا۔

الزَّمَرُ: موص (.....) (وَالزَّمَرُ): آواز۔ ج زَمُورٌ۔

الزَّمِيرُ: بانسری بجانے والا۔ غِنَاءٌ زَمِيرٌ: عمدہ گانا۔ کم بالوں یا کم اون والا۔ کم مروت والا۔ مَوْنٌ زَمِيرَةٌ عَطِيَّةٌ زَمِيرَةٌ: تھوڑی داد و دہش۔

الزَّمَارُ: موص۔ شتر مرغ کی آواز۔

الزَّمِيرُ: سخت و درشت۔

الزَّمِيرُ: موص۔ پست قدم۔ ج زَمَارٌ (.....) (وَالزَّمِيرُ): خوبصورت لڑکا۔ غِنَاءٌ زَمِيرٌ: عمدہ گانا۔

الزَّمِيرُ وَالزَّمِيرُ: ایک قسم کی مچھلی جس کی پیٹھ پر کھڑے کائنے ہوتے ہیں۔

الزَّمَارُ: بانسری بجانے والا۔

الزَّمَارَةُ: بانسری۔ زَمَارَةُ الرَّايِحِ: ایک قسم کی نباتات۔

الزَّمَرَةُ: گروہ۔ جماعت۔ فوج۔ ج زَمَرٌ

الزَّمَرُ: گروہ۔ خوبصورت لڑکا۔

الزَّمَارَةُ وَالزَّمِيرَةُ: کم مروٹی۔

الزَّمَارَةُ: بانسری بجانے کا پیشہ۔

الزَّمَرُ: بانسری (.....) (وَالزَّمَرُ) (وَالزَّمَرُ): گیت۔ ج زَمَرٌ مِيمٌ: مزامیر۔ ذاد واد: حضرت داد وعلیہ السلام کی دعا اور اس کے مجموعہ کا نام زبور ہے۔

الزَّمَرُ وَالزَّمَرُ: ایک سبز رنگ کا بیش قیمت پتھر۔ واحد (زَمَرَةٌ)

زَمَزَمَ: السَّوْعَاءُ: برتن کو اچھی طرح سے بھرنے کے لئے بلانا۔

زَمَزَمَ زَمَزَمَةً: الشَّيْءُ: دور سے گنگناہٹ سنانا وینا (.....) النَّسَاءُ: آگ کے بھڑکنے میں آواز نکھانا (.....) الْمُغْنِي: سر سے گانا۔

الزَّمَلُوحُ: عجی کافروں کا کھانے کے وقت حلق یا تھنوں سے آواز نکالنا اور ایک کا دوسرے کے منہ بوم کو سمجھنا۔ زَمَزَمَهُ: بکھری ہوئی چیز کو جمع کرنا (.....) الشَّيْءُ: حفاظت کرنا۔

تَزَمَزَمَ: الْجَمَلُ: بڑبڑانا۔ تَزَمَزَمَتْ بِهِ: شَفَقَتَا: حرکت کرنا۔

مَاءٌ (زَمَزَمٌ وَزَمَزَامٌ وَزَمَزِمٌ وَزَمَزِيمٌ): بہت پانی۔ کچھ کھاری پانی۔ زَمَزِمٌ: کعبہ معظمہ حرسہا اللہ کے نزدیک ایک کنوئیں کا نام۔

الزَّمَزَمَةُ: موص۔ بادلوں کی گرج۔ آگ کے بھڑکنے کی آواز۔ شیر کی گونج۔ ج زَمَزِمٌ۔

الزَّمَزِمَةُ: اونٹوں یا آدمیوں کا گروہ۔ ج زَمَزِمٌ وَزَمَزِمٌ۔

الزَّمَزَمُ وَالزَّمَزِمُ وَالزَّمَزِيمُ: مِنَ الْاِبِلِ: عمدہ اونٹوں کی جماعت۔ اونٹوں کا گلد۔ ج زَمَزِيمٌ۔

زَمَجَ: (س) زَمَجًا: مَنَةً: سرگشتہ و حیران ہونا۔ گھبرانا۔

زَمَجَ (ف) زَمَجًا وَزَمَعَانًا: الْاَرْتَبُ: خرگوش کا تیز چلنا۔ آہستہ آہستہ چلنا۔

أَزْمَعُ وَزَمَعُ: الْأَمْرُ وَعَلَيْهِ وَبِهِ: ثابت قدم رہنا۔ پختہ ارادہ کرنا۔ وَأَزْمَعُ الْحَرَمُ: انکور کی شاخوں کا گروہ دار ہونا۔ زَمَعُ الزَّمَانُورُ:

الأُؤْمَلَةُ: کمان کی آواز۔ تمام سارا۔ کہا جاتا ہے "أَحَدُهُ بِأُؤْمَلِيهِ" اس نے ساری چیز لے لی اور کہا جاتا ہے "لَهُ عِيَالٌ أُؤْمَلَةٌ" اس کے بہت بال بچے ہیں۔

الأُؤْمُولَةُ وَالْأُؤْمُولَةُ: آواز کرنے والا پہاڑی بکرا یا ہیرن وغیرہ۔

الْأُؤْمِيلُ: راہی۔ چھینی۔ ہتھوڑا۔ مضبوط مرد۔ کزور مرد۔ (مزد)

الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ: کپڑوں میں لپٹنے والا۔ الْمُؤْمِلَةُ: الْمُؤْمِلُ: کاموٹ۔ پانی سرد کرنے کا گھڑا یا مٹکا۔

زَمِنٌ: (س) زَمْنَا وَزَمْنَا: لٹھا ہونا۔ أَرْزَمِنُ: الشَّيْءُ: دیر تک باقی رہنا۔... اللّٰهُ: لٹھے یخ میں مبتلا کرنا۔... بِالْمَمْكَانِ: مدت تک اقامت کرنا۔ کہا جاتا ہے "أَرْزَمِنُ عَنِّي غَطَاؤُكَ"۔

الزَّمَنُ: (ج) أَرْزَمَانٌ وَأَرْزَمَانٌ وَالزَّمَانُ: (ج) أَرْزَمَةٌ وَالزَّمَانَةُ: وقت۔ أَرْزَمَةُ السَّنَةِ: سال کی چاروں فصلیں۔ بہار۔ گرمی۔ برسات۔ جاڑ۔ اَرْزَمَانٌ (زَمِينٌ): سخت زمانہ۔ الزَّمَانَةُ: آفت۔ لٹھائیں۔ قوتوں کی بے بسی۔ محبت۔

الزَّمِينُ: (ج) زَمِينٌ وَالزَّمِينُ: (ج) زَمِينٌ وَأَرْزَمَانَةٌ: لٹھا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ زَمِينٌ الرَّغْبَةُ": فلاں کزور خواہش والا ہے۔ عَامَلَةٌ (مُزَامِنَةٌ): اس نے اس سے کچھ وقت کے لئے معاملہ کیا۔

الزَّمِينُ: (ج) زَمِينٌ وَالزَّمِينُ: (ج) زَمِينٌ وَأَرْزَمَانَةٌ: لٹھا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ زَمِينٌ الرَّغْبَةُ": فلاں کزور خواہش والا ہے۔ عَامَلَةٌ (مُزَامِنَةٌ): اس نے اس سے کچھ وقت کے لئے معاملہ کیا۔

الزَّمِينُ: (ج) زَمِينٌ وَالزَّمِينُ: (ج) زَمِينٌ وَأَرْزَمَانَةٌ: لٹھا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ زَمِينٌ الرَّغْبَةُ": فلاں کزور خواہش والا ہے۔ عَامَلَةٌ (مُزَامِنَةٌ): اس نے اس سے کچھ وقت کے لئے معاملہ کیا۔

الزَّمِينُ: (ج) زَمِينٌ وَالزَّمِينُ: (ج) زَمِينٌ وَأَرْزَمَانَةٌ: لٹھا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ زَمِينٌ الرَّغْبَةُ": فلاں کزور خواہش والا ہے۔ عَامَلَةٌ (مُزَامِنَةٌ): اس نے اس سے کچھ وقت کے لئے معاملہ کیا۔

الزَّمِينُ: (ج) زَمِينٌ وَالزَّمِينُ: (ج) زَمِينٌ وَأَرْزَمَانَةٌ: لٹھا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ زَمِينٌ الرَّغْبَةُ": فلاں کزور خواہش والا ہے۔ عَامَلَةٌ (مُزَامِنَةٌ): اس نے اس سے کچھ وقت کے لئے معاملہ کیا۔

الزَّمِينُ: (ج) زَمِينٌ وَالزَّمِينُ: (ج) زَمِينٌ وَأَرْزَمَانَةٌ: لٹھا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ زَمِينٌ الرَّغْبَةُ": فلاں کزور خواہش والا ہے۔ عَامَلَةٌ (مُزَامِنَةٌ): اس نے اس سے کچھ وقت کے لئے معاملہ کیا۔

الزَّمِينُ: (ج) زَمِينٌ وَالزَّمِينُ: (ج) زَمِينٌ وَأَرْزَمَانَةٌ: لٹھا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ زَمِينٌ الرَّغْبَةُ": فلاں کزور خواہش والا ہے۔ عَامَلَةٌ (مُزَامِنَةٌ): اس نے اس سے کچھ وقت کے لئے معاملہ کیا۔

الزَّمِينُ: (ج) زَمِينٌ وَالزَّمِينُ: (ج) زَمِينٌ وَأَرْزَمَانَةٌ: لٹھا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ زَمِينٌ الرَّغْبَةُ": فلاں کزور خواہش والا ہے۔ عَامَلَةٌ (مُزَامِنَةٌ): اس نے اس سے کچھ وقت کے لئے معاملہ کیا۔

الزَّمِينُ: (ج) زَمِينٌ وَالزَّمِينُ: (ج) زَمِينٌ وَأَرْزَمَانَةٌ: لٹھا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ زَمِينٌ الرَّغْبَةُ": فلاں کزور خواہش والا ہے۔ عَامَلَةٌ (مُزَامِنَةٌ): اس نے اس سے کچھ وقت کے لئے معاملہ کیا۔

الزَّمِينُ: (ج) زَمِينٌ وَالزَّمِينُ: (ج) زَمِينٌ وَأَرْزَمَانَةٌ: لٹھا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ زَمِينٌ الرَّغْبَةُ": فلاں کزور خواہش والا ہے۔ عَامَلَةٌ (مُزَامِنَةٌ): اس نے اس سے کچھ وقت کے لئے معاملہ کیا۔

الزَّمِينُ: (ج) زَمِينٌ وَالزَّمِينُ: (ج) زَمِينٌ وَأَرْزَمَانَةٌ: لٹھا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ زَمِينٌ الرَّغْبَةُ": فلاں کزور خواہش والا ہے۔ عَامَلَةٌ (مُزَامِنَةٌ): اس نے اس سے کچھ وقت کے لئے معاملہ کیا۔

الزَّمِينُ: (ج) زَمِينٌ وَالزَّمِينُ: (ج) زَمِينٌ وَأَرْزَمَانَةٌ: لٹھا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ زَمِينٌ الرَّغْبَةُ": فلاں کزور خواہش والا ہے۔ عَامَلَةٌ (مُزَامِنَةٌ): اس نے اس سے کچھ وقت کے لئے معاملہ کیا۔

الزَّمَكَةُ: مِنَ الرَّجَالِ: جلدی غضبناک ہونے والا۔ بے وقوف۔ پست قدم۔ ج الزَّمَكُونُ.

الزَّمِكِيُّ وَالزَّمِيكُ: پرندہ کی دم یا اس کی جڑ۔

زَمَلٌ: (ن ض) زَمَلًا. الْأَعْرَجُ: لنگڑے کا ایک جانب جھکے ہوئے دوڑنا۔

زَمَلْتُ: (ن) زَمَلًا وَزَمَلًا وَزَمَلًا وَزَمَلَانًا. الدَّابَّةُ: نشاٹ کی وجہ سے لنگڑاتے ہوئے چلنا (زَمُولًا) الْقَوْسُ: کمان سے آواز لگنا (زَمَلًا) الرَّفِيقُ: اپنے پیچھے سوار کرنا..... الرَّجُلُ: پیروی کرنا..... الشَّيْءُ: لادانا۔

زَمَلٌ: الشَّيْءُ: چھپانا..... الشَّيْءُ بِقَوْبِهِ أَوْفَى قَوْبِهِ: لپٹنا۔

زَمَلٌ: الرَّفِيقُ: مجمل میں ایک جانب سوار کرنا۔

تَزَمَلٌ وَإِزْمَلٌ وَإِزْمَلٌ: بِقَوْبِهِ: لپٹنا۔ إِزْمَلُ الْجَمَلُ: ایک دفعہ میں لادنا۔

الزَّمَلُ: جانور پر پیچھے سے سوار ہونے والا ساتھی بوجھ۔

الزَّمَلُ وَالزَّمَلَةُ وَالزَّمَلَةُ: عیال۔ بال بچے۔

الزَّمَلُ وَالزَّمَلُ وَالزَّمَلُ وَالزَّمَلُ وَالزَّمَلُ وَالزَّمَلُ: جالاک مرد۔ مکروہ بات۔ ج أَرْزَمُ: رَجُلٌ أَرْزَمٌ: زائد انگلی والا مرد۔

الزَّمَلُ: ثابت قدم پختہ ارادہ والا۔ زَمَقٌ: (ن ض) زَمَقًا. الْقَفْلُ: تالا کھولنا۔

السَّلْحِيَّةُ: داڑھی نوجوان۔ صفت مفعولی (زَمِيقَةٌ وَمُزَمِقَةٌ): کہا جاتا ہے "مَسَالِحُنِي عَنِّي" (زَمَقَةٌ): یعنی اس نے کچھ فائدہ نہیں دیا۔

زَمَكٌ: (ن) زَمَكًا: چپ رہنا (وَزَمَكٌ) الْقَرِيَّةُ: مٹکا بھرتا۔ زَمَكَةٌ عَلَيَّ: بھڑکا بھڑکا کر غصہ دلانا۔

إِزْمَاكٌ: سخت غضبناک ہونا۔

الزَّمَكُ: سخت غصہ۔ کسی چیز کا آپس میں گتہ جاتا۔

إِزْمَاكٌ: سخت غضبناک ہونا۔

الزَّمَكُ: سخت غصہ۔ کسی چیز کا آپس میں گتہ جاتا۔

إِزْمَاكٌ: سخت غضبناک ہونا۔

إِزْمَاكٌ: سخت غصہ۔ کسی چیز کا آپس میں گتہ جاتا۔

بھڑکا بھڑکتا۔ اَزْمَعَتِ الْأَرْزَبُ: خرگوش کا ہلکا پھلکا اور تیز دوڑنا۔

الزَّمْعُ: مَصٌّ - چھوٹی ننگ نالیاں۔ کینے و رزیل لوگ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مِنَ الرَّعَاعِ وَالزَّمْعُ" وہ بہت پست اور اونٹنی لوگوں میں سے ہے۔ انگوڑ کی شاخ کی گروہ۔ آہستہ سیلاب۔ انگلی کی مقدار معتاد سے زائد بے قراری۔ کسی کام کے سوچنے کے وقت کی کچھ سیڑھی (الزَّمْعُ)..... پختہ ارادہ۔

الزَّمْعَةُ: بگڑا۔ کہا جاتا ہے "أَرْضٌ فِيهَا زَمْعَةٌ مِنَ النَّبْتِ": زمین کہ اس میں گھاس کا ایک ٹکڑا ہے۔

الزَّمْعَةُ: ج زَمْعٌ وَزَمَاعٌ: بکری یا ہیرن کی ٹانگ میں پھیلی جانب کے لٹکے ہوئے بال۔ ج الزَّمَاعُ: چھوٹا ٹیلہ۔

الزَّمْعِيُّ: خسیس۔ جلدی غصہ میں آجانے والا۔

الزَّمْعُ: بے ڈنک کی بھڑ۔ وہ شخص جو اپنی ضروریات میں پست نہ ہو۔

الزَّمَاعَةُ: دبر۔

الزَّمْعُ: پختہ ارادہ والا بہادر۔ عمدہ رائے والا۔ ج الزَّمْعَاءُ (..... وَالزَّمْعُ): جلد باز۔

الزَّمْعُ: جالاک مرد۔ مکروہ بات۔ ج أَرْزَمُ: رَجُلٌ أَرْزَمٌ: زائد انگلی والا مرد۔

الزَّمْعُ: ثابت قدم پختہ ارادہ والا۔ زَمَقٌ: (ن ض) زَمَقًا. الْقَفْلُ: تالا کھولنا۔

السَّلْحِيَّةُ: داڑھی نوجوان۔ صفت مفعولی (زَمِيقَةٌ وَمُزَمِقَةٌ): کہا جاتا ہے "مَسَالِحُنِي عَنِّي" (زَمَقَةٌ): یعنی اس نے کچھ فائدہ نہیں دیا۔

زَمَكٌ: (ن) زَمَكًا: چپ رہنا (وَزَمَكٌ) الْقَرِيَّةُ: مٹکا بھرتا۔ زَمَكَةٌ عَلَيَّ: بھڑکا بھڑکا کر غصہ دلانا۔

إِزْمَاكٌ: سخت غضبناک ہونا۔

الزَّمَكُ: سخت غصہ۔ کسی چیز کا آپس میں گتہ جاتا۔

إِزْمَاكٌ: سخت غضبناک ہونا۔

الزَّمَكُ: سخت غصہ۔ کسی چیز کا آپس میں گتہ جاتا۔

إِزْمَاكٌ: سخت غضبناک ہونا۔

إِزْمَاكٌ: سخت غصہ۔ کسی چیز کا آپس میں گتہ جاتا۔

إِزْمَاكٌ: سخت غصہ۔ کسی چیز کا آپس میں گتہ جاتا۔

إِزْمَاكٌ: سخت غصہ۔ کسی چیز کا آپس میں گتہ جاتا۔

<p>ذُنْبُكَ: (ف) ذُنْبُكَ: تعریف کرنا۔ دفع کرنا۔ معاملہ میں تھکی کرنا۔ ذُنْبُكَ: ایک دوسرے کی تعریف کرنا۔ ذُنْبُجٌ وَتَزْنُجٌ: الماء: بار بار پانی پینا وَتَزْنُجٌ السُّجُلُ: محل کرگفتگو کرنا۔ اپنے آپ کو مرتبہ سے زیادہ ظاہر کرنا۔ کسی معاملہ یا فرض میں تھکی برتنا۔ الذُّنْبُجُ: بدلہ۔ ذُنْبُخٌ: (ف) ذُنْبُخًا: الدهن: تیل کا بگڑنا۔ خراب ہونا۔ صفت (ذُنْبُخٌ) ذُنْبُخٌ: (ن ض) ذُنْبُخًا: القراذ: چھڑی کا چمٹنا۔ ذُنْبُخَةٌ: ایک دوسرے کو ہنانا۔ تَزْنُجٌ: تکبر کرنا۔ کھل کر گفتگو کرنا۔ إِبْسَلٌ (ذُنْبُخَةٌ): پیاس کی وجہ سے سٹھے ہوئے پیٹ والے اونٹ۔ ذُنْبُخُو: بمنخورہ: خرائے لینا۔ ذُنْبُدٌ: (ن ض) ذُنْبُدًا: الإناث: برتن کو بھرتا۔ النَّارُ: چھماق سے آگ نکالنا۔ ذُنْبُدٌ: جھوٹ بولنا۔ چھماق سے آگ نکالنا۔ السِّقَاءُ: مشک بھرتا۔ فی الامر: تنگ دل ہونا۔ عُلَى اَهْلِهِ: سختی برتنا۔ کہا جاتا ہے "مَسَا يُزِيدُكَ اَحَدًا عَلَيْهِ" یعنی تمہارے لئے کوئی زیادہ نہیں کرے گا۔ أَزْنُدُ: الشئ: زیادہ ہونا۔ کہا جاتا ہے "مَسَا يُزِيدُكَ اَحَدًا عَلَيْهِ" یعنی تمہارے لئے کوئی زیادہ نہیں کرے گا۔ السُّرْجُلُ فِي وَجْهِهِ: مرد کا اپنی بیماری میں دوبارہ مبتلا ہو جانا۔ تَزْنُدُ: غضبناک ہونا۔ جواب نہ دے سکتا۔ تم کہتے ہو "سَأَلْتُهُ مَسْئَلَةً فَتَزْنُدُ" میں نے اس سے ایک مسئلہ پوچھا اور وہ جواب نہیں دے سکا۔ فِي الامرِ كَذَا: تنگ دل ہونا۔ السُّنْدُ: عمن۔ ہاتھ کا گنا۔ چھماق کی اوپر والی کٹڑن یا چھرا اور نیچے کو (السُّنْدَةُ): اور</p>	<p>ہوتا ہے۔ السُّنْبُورِيُّ: بھاری بھر کم مرد۔ بڑی کشمی۔ کہا جاتا ہے سَفِينَةُ ذُنْبُورِيَّةٌ۔ الذُّنْبَارُ: ڈسنے والی مٹی۔ أَرْضٌ مَزْبُورَةٌ: بہت بھڑوں والی زمین۔ السُّنْبُورُكُ: گھڑی کا اسپرنگ (یہ لکھ فارسی ہے) اس کے مقابلہ میں "السَّابِضُ" کا کلہ وضع کیا گیا ہے۔ الزُّنْبَاعَةُ: چرمی موزے یا جوتے کی نوک۔ السُّنْبِقُ: سوسن سفیدی یا سفید چینیلی۔ واحد۔ (ذُنْبِقَةٌ): چینیلی کا تیل۔ بانسری۔ ج ذُنْبِاقِ اُمُّ ذُنْبِقٍ: شراب۔ الزُّنْبِيلُ: پستہ قدمرد۔ تَزْنُورٌ: تاز سے چمٹنا۔ الزُّنْبُورَةُ: تھکی۔ عسرت۔ ذُنْبُجٌ (س) ذُنْبُجًا: پیاس سے آنٹوں کا سکڑنا۔ ذُنْبُجَةٌ: بُر ائی یا بھلائی کا بدلہ دینا۔ تَزْنُجٌ: عَلَيْهِ: دست درازی کرنا۔ السُّنْبُجُ وَالسُّنْبُجُ: جھشی واحد (ذُنْبُجِي) ج ذُنْبُوجٌ۔ الذُّنْبُجُ: بدلہ۔ الذُّنْبُجُ وَالذُّنْبُجَانُ: کربند۔ الذُّنْبُجِيَّةُ: گدی جس کو عورتیں اپنے سر میں پر بڑا معلوم ہونے کے لئے باندھتی ہیں۔ الذُّنْبُجِيَّةُ: سوٹھ۔ شراب۔ ذُنْبُجُو: انگوٹھے کے ناخن کو انگشت شہادت کے ناخن سے مارتا۔ الذُّنْبُجَارُ: تانبے کا رنگ۔ الذُّنْبُجِيَّةُ وَالذُّنْبُجِيَّةُ: سپیدی جو جوانوں کے ناخن پر ہوتی ہے۔ الذُّنْبُجِيُّ: ناخن کا کٹا ہوا حصہ۔ زنجیر۔ اس سے قفل کا اشتقاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں (ذُنْبُجُوَّةٌ فَتَزْنُجُو): یعنی اس نے اسے قید کیا اور وہ قید ہو گیا اور عوام کہتے ہیں جَنْبُورٌ وَجَنْبُورَةٌ: الذُّنْبُجُفَرُ وَالذُّنْبُجُفَرُ: شکر۔ الذُّنْبُجِيلُ: کمزور دست بدن والا مرد۔</p>	<p>سرخ ہونا۔ الذُّنْبُورِيُّ: سخت سردی۔ الذُّنْبُورِيُّ: سخت غضبناک۔ ہنسنے والا۔ إِذْمَهْلُ الْمَطَرِ: برسنہ..... السُّلْبُجُ: برف کا کھیلنے کے بعد ہسٹا۔ ذُنُّ (ن) ذُنًا: غضبہ: چھٹے کا خشک ہونا۔ السُّرْجُلُ: ڈھیلے جوڑوں والا ہونا (ذُنَّةٌ) وَازْنَةٌ: بَخْبُورٌ اَوْ شِبْرٌ: نیک یا بدگمان کرنا۔ بِكَلْبًا: تہمت لگانا۔ ذُنُّنٌ: السُّرْجُلُ: ہمیشہ ماش کھانا۔ الذُّنُّنُ: ماش۔ السُّنُّنُ: تنگ۔ عساة ذُنُّنٌ: تھوڑا پانی۔ طلق (ذُنُّنٌ): تھوڑا سا۔ جَنْطَةُ (ذُنَّةٌ): گیبوں جس کو بارش کے علاوہ پانی دیا گیا ہو۔ الذُّنُّنِيُّ: باخاندہ یا پیشاب روکنے والا۔ أَبُو ذُنَّةٌ: تھوڑا۔ ذُنَّا: (ف) ذُنَّا وَذُنُوًا: اليه: بناہ لینا۔ فِي الْجَبَلِ: پہاڑ پر چڑھنا..... الظُّلُّ: سایہ کا سمٹنا۔ السُّرْجُلُ: خوش ہونا۔ جلدی کرنا۔ زمین سے چمٹنا۔ سُوْلُهُ ذُنَّا: پیشاب روکنا۔ بُوْلُهُ ذُنُوًا: پیشاب رکنا۔ ذُنَّا عَلَيْهِ: تھکی کرنا۔ أَزْنَاهُ إِزْنَاءٌ: مجبور کرنا۔ چڑھانا۔ باز رکھنا۔ السُّرْنَاءُ: پستہ قدم۔ پیشاب یا باخاندہ روکنے والا۔ تنگ۔ قہر۔ الذُّنْبِيُّ: چھوٹی مشک۔ ذُنْبٌ: (س) ذُنْبًا: موٹا ہونا۔ الْأَزْنَبُ: موٹا پستہ قدم۔ السُّرْنَبُ: بزدل۔ ایک خوشبودار خوش منظر درخت۔ الذُّنْبِيُّ: آہستہ چال۔ ذُنَابَةُ الْعُقْرُبِ: بچھو کا ڈمک۔ تَزْنِبُ عَلَيْهِ: تکبر کرنا۔ ترش روی کرنا۔ الذُّنْبِيُّ: شہ۔ السُّنْبُورُ: بھڑ۔ ایک درخت جو چنار کی مانند</p>
--	---	---

دونوں کو (الزندان): کہتے ہیں۔ ج زنادو
أزندو ازناد.

اور کہا جاتا ہے "فَلَانٌ وَارِئِي الزُّنْدُ" فلاں
کا میاب ہے۔ و "فَلَانٌ كَمَا بِي الزُّنْدُ" فلاں
نا کا میاب ہے۔ و "هُمَا كَزُنْدَيْنِ": وہ
دونوں مساوی ہیں اس کا استعمال عموماً
دانت و سخت میں ہوتا ہے اور ان دونوں
آدمیوں کے لئے بھی بولتے ہیں جن کی وجہ
سے حاجت پوری ہو اور جو تمہاری مدد کرے
اس کے لئے کہتے ہو "وَزَتْ بِكَ
زِنَادِي": یعنی تمہاری وجہ سے میری حاجت
پوری ہوئی۔

الْمُزْنِدُ: تنگ۔ بخیل۔ منہ بولا بیٹا۔ کم چوڑا
کپڑا۔ عطاء مُزْنِدٌ: تھوڑی بخشش۔

تَسْنَدُقُ: بے دین ہونا۔ دو خدا ماننا۔ باطنی
کافر ہونا۔ صفت زَسْنِدُقِي. ج زِنَادِقَةٌ
وَزِنَادِيقِي.

الزُّنْدَقَةُ: ظاہری ایمان و باطنی کفر۔ زَجُلُ
(زُنْدَقٌ وَزُنْدَقِي): بہت بخیل۔

زُنْرٌ: (ن) زُنْرًا. الإِنَاءُ: برتن بھرتا۔
..... الفَلَامُ: لڑکے کو جینیو پہناتا۔

زُنْرٌ: التي بَعِيْنِي: گھور کر دیکھنا۔
تَزُنْرٌ: جینیو پہنانا..... الشُّيْ: ہار یک ہونا۔

الزُّنَارُ: ج زُنَائِيْرٌ و (الزُّنَارَةُ): جینیو۔
الزُّنَائِيْرُ: چھوٹی کنکریاں۔

الزُّنْرُلُخْتُ: ایک درخت کا نام۔
زُنْفٌ: (س) زُنْفًا وَتَزُنْفٌ: غضبناک ہونا۔

زُنْقٌ: (ن ض) زُنْقًا وَزُنْقٌ. الفَرَسُ:
گھوڑے کا نچلے جڑے کے نیچے تسمہ لگانا۔

..... البَقْلُ: چھری ٹانگوں میں پائے بند
باندھنا۔ (..... وَزُنْقٌ وَآزُنْقٌ. عُلِي أَوْلَادِهِ:
اولاد پر نقتہ میں تلخی کرنا۔)

الزُّنْقِي: نیزے کی نوک۔ گھوڑے کا نچلا جزا
جہاں تسمہ باندھتے ہیں۔ ج زُنْقُوِي.

الزُّنْقَةُ: تنگ گلی۔
الزُّنْقَانِي: گھوڑے کے نچلے جڑے کے نیچے کا
تسمہ۔ فخر کا پائے بند۔ گلوبند۔ عورتوں کا ایک

زبور۔ ج زُنْفِي.
الزُّنْقَانَةُ: گھوڑے کے جڑے کے نیچے کے
تسمہ کا حلقہ۔

الزُّنْبِيْقِي: درست۔ مضبوط۔ کہا جاتا ہے "زُنْبِيْقِي
وَرَبِيْقِي" درست رائے۔

الْمُزْنُوْقِي: مفتح۔ بند پیشاب والا۔
الزُّنْكُ: (علم کیسا) توتیا۔

زُنْمٌ. لَهُ الْغَضَمُ: کسی کو وکیل خصوصت بنا کر
بھیجتا۔

الزُّنْمَةُ: کان کا وہ حصہ جو کاٹ دیا جائے اور
لگتا رہے۔ حلق کے نیچے کا لگتا ہوا گوشت۔

علامت زُنْمَتَا الْأُنْ: کان کی لو کے قریب
آبھرا ہوا حصہ۔ کہا جاتا ہے "فَسِي كَلَابِيْهِ
زُنْمَةٌ خَيْسِرٌ وَزُنْمَةٌ شَرٌّ" یعنی اس کے کلام

میں خیر یا شر کی علامت ہے۔
الزُّنْمِ. مِنَ الْجَمَالِ: اونٹ جس کے کان کا
کچھ حصہ کاٹ دیا جائے اور وہ لگتا رہے۔

مَوْنَتْ زُنْمَةٌ.
الْأَزْنَمُ. مِنَ الْجَمَالِ: بمعنی الزُّنْمِ: مَوْنَتْ
زُنْمَاءٌ. ج زُنْمٌ.

الزُّنَامُ: مصیبت۔
الزُّنَيْمُ: کمینہ۔ منہ بولا بیٹا (..... وَالْمُزْنُوْمُ):
اجنبی آدمی جو قوم میں داخل ہو جائے اور قوم

کے لوگ اس کے حاجت مند نہ ہوں۔
نَاقَةٌ (مُزْنَمَةٌ): اونٹنی جس کے کان کا کچھ حصہ
کاٹ کر لگتا ہوا چھوڑ دیا جائے۔

زُنَانٌ (ن) زُنُوْنَا: تنگ ہونا۔ صفت (زُنِي)
زُنِي تَزِيْبَةٌ. عَلَيْهِ تَجَلِي كَرْنَا۔

زُنِي (ض) زُنِي وَزِنَاءٌ وَزَانِي مُزَانَاةٌ
وَزِنَاءٌ: زنا کرنا۔ صفت (زَان) ج زُنَاةُ:
صفت مَوْنَتْ زَانِيَةٌ ج زَوَانٌ.

زُنِي. ه: زنا کی نسبت کرنا یا زانی کہنا۔
أَزْنِي الْأِنَاءُ: زنا کرنے پر اُکسانا۔

الزُّنَابِيَّةُ: زنا کرنے والا۔ (تا مبالغہ کے لئے
ہے۔)

الزُّنَاءَةُ: بہت زنا کرنے والی۔ بندریا۔
الزُّنْيَةُ: مرد کا آخری بچہ۔

زہ: کلمہ استحسان بمعنی خوب اور بھی حکم کے
طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے برائی
کرنے والے کیلئے کہا جائے "أَحْسَنْتُ".

زَهْدٌ وَزَهْدٌ: (س ف) وَزَهْدٌ (ك)
زُهْدًا وَزَهْدًا. فِي الشُّيْ وَعَنْهُ: بے رغبتی
کر کے چھوڑ دینا اور اسی سے ہے "زَهْدٌ فِي
الذُّنْيَا": اس نے دنیا سے منہ موڑ کر اپنے

آپ کو عبادت کے لئے فارغ کر لیا۔ صفت
فاعل (زَاهِدٌ): صفت مقبول (مُزْهَبُوْدٌ) فِيْهِ
وَعَنْهُ)

زَهْدٌ زَهْدًا. النَّخْلَةُ: کھجور کے درخت پر
سچلوں کا اندازہ کرنا۔

زَهْدَةٌ. فِي الشُّيْ وَعَنْهُ: بے رغبت کرنا۔
(زَهْدٌ وَأَزْهَدُ) النَّخْلُ: کھجور کے درخت پر
سچلوں کا اندازہ کرنا۔

تَزَهَّدَ: عبادت کے لئے دنیا کو چھوڑ دینا۔
تَزَاهَدَ. الْقَوْمُ فَلَانًا: حقارت کرنا۔

إِرْزَهْدَ. الشُّيْ: کم سمجھنا۔ کہا جاتا ہے "خُذْ
(زَهْدٌ) مَا يَكْفِيْكَ": جتنا تم کو کافی ہو اس کو
لے لو۔

الزُّهْدُ وَالزُّهَادَةُ: حقارت کی وجہ سے بے
رغبتی۔

الزُّهْدُ: زَكُوَّةٌ. ج زُهَادٌ.
أَرْضٌ (زَهْدَةٌ): زمین جو بہت پانی برسنے
سے بے ہے۔

الزُّهْدُ: فا۔ آخرت کی محبت کی وجہ سے دنیا
سے بے رغبت۔ تنگ خو۔ ج زُهْدٌ وَزُهَادٌ
وَزَاهِدُونَ.

الزُّهَيْدُ: کم حقیر۔ مَوْنَتْ زَهَيْدَةٌ: کہا جاتا
ہے "هُوَ زَهَيْدُ الْخُلُقِي": وہ تنگ خو ہے۔
"هُوَ زَهَيْدُ الْعَيْنِ": وہ میر چشم ہے۔ تھوڑے
پر قناعت کرتا ہے۔ و "وَأَزْهَيْدٌ": کم پانی کو
لینے والی وادی۔ ج زُهْدَانٌ.

الزُّهَيْدُ: بہت بے رغبتی کرنے والا
الْمُزْهَدُ: کم مال والا۔

زَهْرٌ: (ف) زَهْرُوْرًا. البَسْرَاجُ أَوِ الْقَمِيْرُ
أَوِ الْوُجْه: چمکانا۔ روشن ہونا..... الشُّيْ:

صاف رنگ والی ہوتا..... الزند: چھماق سے آگ روشن ہونا۔ کہا جاتا ہے ”زہرت بک زنادی اونساری“: تمہاری وجہ سے مجھے قوت حاصل ہوئی اور میں معزز ہوا۔

زہر: (س) زہرا اور زہر (ک) زہورۃ، الزجل: خوبصورت و پارونق ہونا۔ ازہر: النبات: کئی لکنا..... الناز: آگ روشن کرنا۔

ازدھر: روشن ہونا۔ چمکدار ہونا۔ بالامر: نگہداشت کرنا۔ دل میں رکھنا۔ کہا جاتا ہے ”ازدھر بہذا فان لہ شاناً“: اس کی حفاظت کرو اس لئے کہ اس کے لئے ایک خاص شان ہے۔

ازہر و ازہار: النبات: کئی لانا۔ ٹھوکر دار ہونا۔

نزہر: السراج ونحوہ: چراغ وغیرہ کا روشن ہونا۔

الزهر والزهر: کئی ٹھوکر واحد (زہورۃ وزہورۃ) زہورۃ الدنيا: دنیا کی رونق و خوبی۔ زہر و ازہار و زہور: حج ازہر و ازہیر۔ زہر النرد: تاش۔

الزہر والزہورۃ: حاجت۔ کہا جاتا ہے ”قضیت منہ زہری وزہرتی“: اس سے میں نے اپنی حاجت پوری کی۔ الزہر: مینے کی پہلی تین راتیں (مانند غرر کے)

الزہورۃ: خوبصورتی۔

الزہورۃ: ایک سیارے کا نام جو کہ سورج سے ۱۰۸ ملین کلومیٹر دور ہے۔ اس کی چمک بھی صبح کے وقت کبھی شام کے وقت بہت ہوتی ہے۔ شام اور عراق کے آس پاس باشندے اس کو پوجتے ہیں اور اس کو العززی کا نام دیتے ہیں۔ بعض قدماء کے نزدیک خوبصورتی کا دویوتا ہے۔

الزہریۃ: بادیا۔ الزہر: پھولوں میں اعضاء تامل کا مجموعہ۔

بادیات الزہر: انگریزوں کی ایک شاخ جن

میں اعضاء تامل ظاہر ہوں اور ان کو اللہ کا نام دیا جاسکتا ہے۔

مشورۃ الزہر: پودوں کی وہ قسم جو کہ نہ پھول نکالیں اور نہ کئے دانہ نکلے۔ (باجھ پودے)

زہورۃ الالام: زمین پر لگی ہوئی خوبصورت انگریزی جس کے بڑے بڑے پھول ہوتے ہیں اس کے پھول مسج کو عذاب دینے کے اوزار کے مشابہ ہوتے ہیں خوبصورتی کے لئے بولی جاتی ہے۔

زہورۃ الحواشی: خنازیری پھولوں کی قسم ہے۔ زینت کے لئے اور جو شانہ کے لئے استعمال ہوتی ہے۔

زہورۃ الربیع: باغوں میں موسم ربیع میں لگائے جانے والا پھول جو کہ زینت کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اس قسم کے پھول کئی انواع پر ہیں۔

زہورۃ من فصیلۃ المرنجات: ایک انگریزی جس کے پتے زمین پر پھیل جاتے ہیں چھوٹا سا تانا ہوتا ہے جس پر چھوٹے چھوٹے پھول ہوتے ہیں۔

زہورۃ العسل: ایک درخت جس کے پھول زرد یا سرخی مائل ہوتے ہیں۔

زہورۃ الضمد: خوبصورتی چٹوں والا پودا۔ الزہیرۃ: ابتدائی چھوٹے چھوٹے پھول۔

المنزہریۃ: ششے کا برتن پھول جانے کے لئے۔

الزہر: قا۔ خوشنما پودہ۔ چمکدار صاف رنگ والا۔ کہا جاتا ہے ”أخمر زہر“: بہت سرخ۔

الزہریۃ: نازکی چال۔ کہا جاتا ہے ”ہو یمشی الزہریۃ“: وہ ناز سے چلتا ہے۔

الازہر: روشن۔ صاف رنگ والا۔ روشن چہرہ والا۔ جحر کا دن۔ تازہ دودھ۔ سپید رنگ کا شیر۔ چاند۔ جنگلی تیل۔ مونث زہراء حج زہر۔

الزہار: بہت چمکدار۔ کہا جاتا ہے ”نجم زہار وقمر نواز“۔

السزہر: قا۔ مہمانوں کے لئے آگ روشن رکھنے والا۔

المزہر: ایک قسم کا باجا۔ حج مزہر۔ زہرف: الشی: کھونا بنانا۔

زہزق: الزجل: بہت ہنسنا۔ زہزقت الام ولدھا: ناں کا بچہ کو کدانا۔

الزہزق: کمینہ۔ فرومایہ۔ زہف: (ف) زھوقا۔ الزجل: ذلیل ہونا۔

ہلاک ہونا۔ جھوٹ بولنا۔ للموت اوالی الموت: قریب المرگ ہونا۔

زہف: (س) زہفا۔ للشی: جلدی کرنا۔ چست ہونا۔

أزہف: الیہ الطغنة: قریب کرنا۔ أزہفتہ الطغنة: قریب یہ ہلاکت کرنا۔

أزہف علی الجریح: حملہ کر کے فوراً مار ڈالنا۔ الزجل: جھوٹ بولنا۔ خیانت کرنا۔ چغل خوری کرنا۔ بُرائی کی طرف جلدی کرنا۔ فلاتا: ذلیل کرنا۔ کسی کے ساتھ بدی کرنا۔ ہلاک کرنا۔ الشی: ڈھیلا کرنا۔ جلدی کرنا۔ لے جانا۔ خراب کرنا۔

ہ بالشی: برائی پر افسانہ۔ بما طلبہ: پورا کرنا۔ بالشی: تعجب کرنا۔ الخیر: خبر میں زیادتی کرنا۔ لہ حدینفا: جھوٹی بات بیان کرنا۔ الیہ حدینفا: قول رومی کی نسبت کرنا۔

إنزہفت: الذابۃ: مار وغیرہ سے اچھلنا۔ تزہف: غنہ: اعراض کرنا۔

إزہف: الی الموت: موت سے قریب ہونا۔ غنہ: اعراض کرنا۔ الشی: منحرف ہونا۔ ہ: جلدی کرنا۔ ہلاک کرنا۔

ہ الذابۃ: جانور کا گرادینا۔ الشی وہ: لے جانا۔ العداۃ و بیہا: دشمنی اختیار کرنا۔ الحنل: بوجھ اٹھانا۔ فلانی: بدی میں گھستا۔ گفتگو میں زیادتی کرنا۔ فی کلامہ: سچی کرنا اور آواز بلند کرنا۔

زہق: (ف) زھوقا۔ العظم: بدی کا مغز

سے پڑ ہونا..... الباطل: نیست و نابود ہونا۔
کمزور ہونا..... زُهَقًا وَزُهُوقًا) النَّفْسُ.....
روح کا جسم سے نکلنا..... الرَّاحِلَةُ: سواری
کا آگے بڑھنا..... الشَّيْءُ: تباہ ہونا۔ ہلاک
ہونا..... السَّهْمُ: تیر کا نشانہ سے گزر
جانا۔

أَزْهَقَ: العَظْمُ: ہڈی کا مغز سے پر ہونا۔
..... الإِنَاءُ: برتن جھرنا..... البَاطِلُ: باطل کو
نیست و نابود کرنا..... السَّهْمُ: تیر کا نشانہ سے
گزارنا..... السَّاقَةُ السَّرِجُ: زین کو آگے
بڑھا کر گردن پر ڈال لینا..... فِي السَّيْرِ: تیز
چلنا۔

زَاهِقٌ: الحَقُّ البَاطِلُ: حق کا باطل کو نیست و
نابود کرنا..... الإِنَاءُ: برتن کو الٹ دینا۔
إِنْزَهَقَ: آگے بڑھنا۔ انزَهَقَتِ الذَّابِيَةُ: مار
وغیرہ سے اچھلنا۔

السَّاهِقُ: پست زمین..... (وَالذَّهْقُ):
گڑھا۔

السَّزَاقُ: فَا- مونا جانور۔ قوی۔ لاغر (ضد)
نکست خوردہ..... مِنَ السَّهْمِ: نشانہ سے
تجاوز کرنے والا تیر..... مِنَ العِيَاهِ: تیز بے
والا پانی۔ نَزَّهَقٌ وَزُهَقٌ)..... (وَالزُّهُوقُ)
ہلاک ہونے والا۔ باطل۔ گہرا کنواں۔

الزُّهِقُ: پھر تیرا۔ سبک۔
فَرَسٌ (زُهَقِي): سبقت لے جانے والا
گھوڑا۔

الزَّاهِقَةُ: الزَّاهِقُ: کا مونس۔ بِسْرُ زَاهِقَةٍ:
گہرا کنواں۔

الزُّهَاقُ وَالزُّهَاقُ: مقدار تقریباً کہا جاتا
ہے "عَبْدِي زُهَاقٌ مِائَةٌ دِينَارٍ" میرے پاس
تقریباً سو دینار ہیں۔

جَسَاءَتِ الخَيْلِ (أَزْهَقٌ وَأَزْهِقُ):
گھوڑوں کی متفرق جماعتیں آئیں۔

الزُّهُوقَةُ: عجیب قسم کی دوڑ۔ نَزَّاهِقُ: کہا
جاتا ہے "فَرَسٌ ذَاتُ أَزْهِقٍ" عجیب قسم
سے دوڑنے والا گھوڑا۔

المُزْهَقَةُ: سبب بطلان۔ سبب ہلاکت۔ کہا

جاتا ہے "جَمَلٌ مُزْهَقَةٌ لِأَزْوَاحِ المَطِيِّ":
اونٹ سواریوں کی روح کے لئے باعث
ہلاکت ہیں۔ یعنی سواریاں پوری کوشش کرتی
ہیں اور اونٹوں کے ساتھ لائق نہیں ہوتیں۔
زَهَكَ: (ف) زَهَكًا: کوٹنا..... السَّرِيحُ
الأَرْضِ: ہوا کا خاک کو اڑانا۔

زَهَلٌ: (س) زَهَلًا: الشَّيْءُ: سفید و چمکا
ہونا۔

زَهَلٌ: (ف) زَهَلًا: عَنِ الشَّيْءِ: دور ہونا۔
الزَّاهِلُ: فَا- مطمئن دل والا
الزُّهْلُولُ: چمکانا۔ نَزَّاهِلِيلُ:

زَجَلٌ (زَهَلَبٌ): سبک دائرہ والی امر۔

زَهَلَقَ: الشَّيْءُ: چمکانا سفید کرنا۔ کہا جاتا ہے
"زَهَلَقَ لِنَهْ السَّخِيدِ" اس نے اس کو ترم
گفتگو سے مخاطب کیا۔

نَزَّهَلَقَ: چمکانا سفید ہونا و نَزَّهَلَقَ الخَيَوانُ:
مونا ہونا۔

السَّوْهَلِيقُ: چمکانا۔ ہلکا پھلکا تیز آدی۔ تیز
ہوا۔ تن کی لوکی جگہ۔ حَمَّازٌ زَهَلِيقٌ: ہموار
پتھر و مونا گدھا۔ نَزَّهَلِيقٌ:

الزُّهْلُوقُ: مونا۔

زَهَمٌ: (ن) زَهَمًا وَأَزْهَمَ: العَظْمُ: ہڈی کا
پڑ مغز ہونا۔ زَهَمَهُ عَنْ كَمَدًا: روکنا۔ زَهَمَ
الزُّجْلُ عَلَيْهِ: بہت باتیں کہنا۔

زَهَمٌ: (س) زَهَمًا: بِدَاحِشِي وَاللَا ہونا۔ صفت
(زَهَمَانٌ) چمکانا ہٹ والا چربی دار ہونا۔
صفت (زَهَمٌ): مَوْنَتْ زَهْمَةٌ:

زَاهِمَةٌ: باہم دشمنی کرنا۔ باہم دوستی کرنا۔
ایک دوسرے سے جدا ہونا۔ ایک دوسرے
کے قریب ہونا۔ (ضد)

الزُّهْمُ: بد بودار ہوا۔ چربی۔ ایک خوشبو کا نام
جو اڑباد کے نام سے مشہور ہے۔ (دیکھیے لفظ
الزُّبَادُ)

السُّهْمَةُ وَالزُّهْمَةُ وَالزُّهْمُ: سڑے ہوئے
گوشت کی بد بو۔

زَهَا: (ن) زَهَوًا وَزُهَوًا وَزَهَاءً: چمکانا۔
روشن ہونا۔ بڑھنا۔ نشوونما پانا..... السَّخْلُ:

درخت خرما کا لہبا ہونا..... البُسْرُ: رنگ پکڑنا
..... الغَلَامُ: لڑکے کا جوان ہونا..... النَّبْتُ:
پھل دار ہونا..... الشَّاةُ: بکری قریب ولادت
کی وجہ سے تھن والی ہونا..... السَّرِيحُ: چلنا
..... السَّرَجُلُ: جھوٹ بولنا۔ تکبر کرنا۔ (زَهَا
(ن) زَهَوًا) فَلَانًا: حقارت کرنا..... الكِبْرُ
فَلَانًا: خود پسند بنانا۔ زَهَا السَّرَاجُ: روشن
کرنا۔

..... الرِّيْحُ النَّبَاتُ: تر شدہ گھاس میں ہوا کی
وجہ سے لہلہا ہٹ ہونا..... الأَمْرُ-وَأَج
السَّفِينَةُ: موجوں کا کشتی کو بلند کرنا..... فَلَانٌ
بِالسَّفِينِ: تلوار چمکانا..... فَلَانًا بِالغَضَاءِ:
الطَّخِي سے مارنا..... السُّرَابُ الإِكْمَةُ
يَزْهَاهَا: نمایاں کرنا (يَزْهَوُهَا: مستعمل نہیں
ہے۔)

زَهِي. الزُّجْلُ بِكَذَا: تکبر کرنا۔
أَزْهَى: تکبر کرنا..... السَّخْلُ: لہبا ہونا.....
البُسْرُ: رنگ اختیار کرنا۔

زَهَى البُسْرُ: رنگ اختیار کرنا۔ زَهَبَ
المِسْرُوحَةُ الرِّيْحُ: چکھے کا ہوا کو حرکت میں
لانا۔

إِذْهَى. الزُّجْلُ: مغرور بنانا۔ حقارت سے
دیکھنا..... هِ عَلَى الأَمْرِ: مجبور کرنا۔ وہبہ:
حقارت کرنا۔

الزُّهَاءُ: بمص۔ مقدار تقریباً کہا جاتا ہے
"عَبْدِي زُهَاءٌ خَمْسِينَ دِينَارًا" میرے
پاس تقریباً پچاس دینار ہیں۔

السُّهْوُ: بمص۔ فخر۔ تکبر۔ غرور۔ جھوٹ و
باطل۔ ظلم۔ سرسبز نباتات۔ زرد یا سرخ کچی
کھجور۔

..... (وَالزُّهَاءُ): تروتازگی و خوبصورتی۔ زُهَا
الدُّنْيَا: دنیا کی زینت و آرائش۔
الزُّهْوُ: زرد یا سرخ کچی کھجور۔

السَّرَاهِي: فَا- پُرُودَتِي چمکانا چہرے والا۔
مَوْنَتْ زَاهِيَةٌ:

المُزْهَى وَالْمُزْهَوُ: تکبر و مغرور۔
ذَاءٌ يَزْوُءٌ زَوْءًا: بِسَه الدُّهْرُ: زمانہ کا

پلت جانا۔

زَاب يَزُوبُ زَوْناً: چپکے سے بھاگ جانا۔
الماء: جاری ہونا۔

زَاج: (ن) زَوْجًا: بَيْتُهُمْ: بھڑکانا۔ فساد ڈالنا۔

زَوْجُهُ: اِمْرَاةٌ اَوْ بِامْرَاةٍ اَوْ لَامْرَاةٍ: نکاح کرانا۔ الشئ بالشئ واليه: ملانا۔

زَواجُه: باہم میل ملاپ رکھنا۔ باہم قریب ہونا۔ (وَأَزْوَاجٌ) بَيْنَهُمَا: قریب کرنا۔

تَزَوَّجَ: اِمْرَاةً وَبِامْرَاةٍ: نکاح کرنا۔ فہی قَوْمٌ: کسی قوم میں نکاح کرنا۔ کہا جاتا ہے "تَزَوَّجَهُ النَوْمُ": اس کو نیند آگئی۔

اِذْخُوجَ وَتَسَازَوجَ: الكَلَامُ: کلام کا ایک حصہ دوسرے حصہ کے صحیح یا وزن میں مشابہ ہونا۔ القَوْمُ: باہم شادی بیاہ کرنا۔

الزَّواجُ: بھینگری (کلمہ فارسی) عوام "السَّجَّازُ" کہتے ہیں۔

السَّزُوجُ: شوہر۔ بیوی۔ ساتھی۔ جوڑا۔ کہا جاتا ہے "عَبْدِي زَوْجًا حَمَامٌ" میرے پاس ایک جوڑا کبوتر ہے۔ وَاشْتَرَيْتُ زَوْجِي بِنَعَالٍ: میں نے ایک جوڑہ جوتا خریدا۔ ہر چیز کی تم۔ جِازُ وَاوْجِ: حجِ اَزْوَاجِجِ: الزَّوْجَةُ: بیوی۔ جِ زَوْجَاتِ: الزَّوْاجُ: شادی بیاہ۔

زَاح يَسْرُوحُ زَوْحًا وَزَوْاحًا: عَنِ الْمَسْكَانِ: دور ہونا۔ بٹنا۔ جانا۔ العِلَّةُ: زائل ہونا۔ (زَوْحًا) اِلْاِبِلُ: پراگندہ کرنا۔ جمع کرنا (ضد)

اَزَاحَهُ: جگہ سے ہٹانا۔ الاَصْرُ: کام کو پورا کرنا۔ اِنْجَامُ كَوْبِهِجَانًا: کہا جاتا ہے "اَزَاحَهَا اللّٰهُ الْعَلَلُ: اللّٰهُ تَعَالَى عَلْتوں کو دور کریں۔

و"اَزَحَتْ عَلْتَهُ فِی مَا اِخْتَاَجَ اِلَيْهِ" یعنی میں نے اس کی ضرورت پوری کر دی۔

اَلزَّاحُ: زائل ہونا۔

زَادَ يَزُوْدُ وَزَادًا: تَوْشَهُ لِيْمَانًا: زَادَةٌ وَزَوْدَةٌ: تَوْشَهُ دِيْنًا: اَزَادًا وَاسْتَزَادَ: تَوْشَهُ مَالِكًا:

تَسْوَدُ: تَوْشَهُ لِيْمَانًا: کہا جاتا ہے "تَسْوَدُ مِنْ الِامْبِرِ كِضَابًا اِلَى غَايِبِلِه" وہ امیر کا خط اس کے عامل کے پاس لے گیا تاکہ اس سے فائدہ اٹھائے "وَتَسْوَرُ مَنِى طَعْنَةً بَيْنَ اُذْنَيْهِ" یعنی میری جانب سے اس کو دونوں کانوں کے درمیان نیزے کا زخم لگا۔

الزَّادُ: تَوْشَهُ زَاوِرًا: جِ اَزْوَدَةٌ وَازْوَادُ: المِزْوَدُ وَالمَزَادُ وَالمَزَادَةُ: تَوْشَهُ دَانِ: جِ مَزَاوِدُ: نِقَاصَةُ المَزَاوِدِ: تَوْشَهُ دَانِ كَاجِيَا كَهَجَا: یہ حسرت کے لئے ضرب المثل ہے۔ وَهَمْ مِلاءُ المَزَاوِدِ: وہ لوگ اغنیاء ہیں۔

زَاوِرٌ يَزُوْرُهُ زِيَاْرَةٌ وَمَزَارًا وَزَوْرًا وَزَوَارًا وَزَوَارَةً وَازْدَاْرَةً: ملاقات کیلئے جانا۔ صفت (ذَابِرٌ) جِ ذَاوِرُوْنَ وَزَوْرٌ وَزَوَارٌ: مَوْنُثُ ذَاوِرَةٌ جِ زَوْرٌ وَزَوْرٌ وَذَاوِرَاتُ: زَاوِرٌ زَوَارًا: السَّفَرُوسُ: گھوڑے کے ہونٹوں میں زیار باندھنا (دیکھئے لفظ زیار)

زَوْرٌ يَزُوْرُ زَوْرًا: جِ ہونا۔ نیزھے سینے والا ہونا۔

زَوْرٌ: جھوٹ کو آراستہ کرنا۔ الكَلَامُ: باطل ٹھہرانا۔ جھوٹ کی طرف نسبت کرنا۔ الشَّهَادَةُ: شہادت کو باطل قرار دینا۔ نَفْسُهُ: جھوٹ و بہتان کی علامت لگانا۔ عَلْتِهِ: کسی پر جھوٹ باندھنا۔ عُنْتَهُ: کسی سے پھر جانا۔ فَلَانًا عَلِي نَفْسِهِ: کسی پر تہمت لگانا۔ الشئى: درست کرنا، سیدھا کرنا۔ الشئى لِنَفْسِهِ: کسی چیز کو پسند کر کے اپنے لئے خاص کر لینا۔ الزَّوْرِيُّ: عزت و اکرام کرنا۔ تم کہتے ہو "زَرْتَهُمْ فَزَوْرُوْنِي" میں نے ان لوگوں سے ملاقات کی اور انہوں نے میری تعظیم کی۔ القَوْمُ صَاحِبُهُمْ: بھلائی کرنا۔

اَزَاْرَهُ: زیارت کرنے پر براہیختہ کرنا۔ الشئى: چلانا۔

اِزْدَاْرَةٌ: ملاقات کے لئے جانا۔

تَزَوَّرٌ: جھوٹ بولنا۔ الشئى: کسی چیز کو پسند کر کے اپنے لئے خاص کر لینا۔

تَسَاوَرٌ: القَوْمُ: ایک دوسرے کی زیارت سے دوسری چیز کی درستی ہو۔ سینہ بند اور تنگ کرنا۔ کہا جاتا ہے "هُم يَتَزَاوَرُوْنَ وَبَيْنَهُمْ تَسَاوَرٌ" وہ آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ (وَأَزْوَرُوْ)۔

اِسْتَزَاْرَهُ: ملاقات کے لئے کہنا۔

النَّزْوَرُ: مص۔ سینہ کے درمیان کا بالائی حصہ یا سینہ کی ہڈیوں کے ملنے کی جگہ اور اسی سے ہے "فَرَسٌ عَرِيضُ النَّزْوَرِ" چوڑے سینہ والا گھوڑا اور کہا جاتا ہے "انْفِطَى زَوْرَةٌ" یعنی اس نے اقامت کر لی۔ النَّزْوَرُ: پختہ ارادہ عقل۔ خیال جو خواب میں آئے۔ زیارت کرنے والا (واحد شتہ جمع مذکر مؤنث سب کے لئے) کہا جاتا ہے زَجَلٌ زَوْرٌ اِمْرَاةٌ زَوْرٌ وَرَجَالٌ زَوْرٌ وَنِسَاءٌ زَوْرٌ: سردار۔ رئیس۔ درخت خرما کی شاخ کہ جس میں پتے ابھی نہ نکلے ہوں۔ پتھر جو کتوں کھودتے وقت نکل آئے اور اس کو توڑ نہ سکیں اور چھوڑ دیں۔

النَّزْوَرُ: عقل۔ جھوٹ۔ باطل۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا قوت۔ کہا جاتا ہے "مَسْأَلُهُ زَوْرٌ وَلَا حَبْوُورٌ": نہ تو اس کے اندر قوت ہے اور نہ کوئی رائے جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ رائے سردار۔ رئیس۔ کھانے کی لذت۔ کپڑے کی نرمی و صفائی۔ راگ و گانے کی مجلس۔ یہودیوں و نصرانیوں کی عیدیں۔

السَّزْوَرُ: مص۔ کچی۔ سینہ کے بالائی حصہ کی کچی۔

السَّزْوَرُ: منکا۔ کتال۔ ہار یک تانت۔ عادت۔ عورتوں سے بغیر ارادہ و ہدی کے بات چیت کرنے کو پسند کرنے والا۔ جِ اَزْوَارٌ وَاَزْوَارٌ وَزِيْوَرَةٌ: الزَّوِيْرَةُ: ملاقات کی ہیئت۔ کتال کا ٹکڑا۔

الزَّوِيْرُ: دو ٹکڑیاں جن سے سلوتری گھوڑے کے ہونٹوں کو دیا کر قابو میں کرتا ہے۔ اس سے فعل کا اشتقاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں زَيْرُ السَّفَرَسِ (وَالزَّوَارُ): ہر وہ چیز جس سے دوسری چیز کی درستی ہو۔ سینہ بند اور تنگ

کرنا۔ کہا جاتا ہے "هُم يَتَزَاوَرُوْنَ وَبَيْنَهُمْ تَسَاوَرٌ" وہ آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ (وَأَزْوَرُوْ)۔ اِسْتَزَاْرَهُ: ملاقات کے لئے کہنا۔

النَّزْوَرُ: مص۔ سینہ کے درمیان کا بالائی حصہ یا سینہ کی ہڈیوں کے ملنے کی جگہ اور اسی سے ہے "فَرَسٌ عَرِيضُ النَّزْوَرِ" چوڑے سینہ والا گھوڑا اور کہا جاتا ہے "انْفِطَى زَوْرَةٌ" یعنی اس نے اقامت کر لی۔ النَّزْوَرُ: پختہ ارادہ عقل۔ خیال جو خواب میں آئے۔ زیارت کرنے والا (واحد شتہ جمع مذکر مؤنث سب کے لئے) کہا جاتا ہے زَجَلٌ زَوْرٌ اِمْرَاةٌ زَوْرٌ وَرَجَالٌ زَوْرٌ وَنِسَاءٌ زَوْرٌ: سردار۔ رئیس۔ درخت خرما کی شاخ کہ جس میں پتے ابھی نہ نکلے ہوں۔ پتھر جو کتوں کھودتے وقت نکل آئے اور اس کو توڑ نہ سکیں اور چھوڑ دیں۔

النَّزْوَرُ: عقل۔ جھوٹ۔ باطل۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا قوت۔ کہا جاتا ہے "مَسْأَلُهُ زَوْرٌ وَلَا حَبْوُورٌ": نہ تو اس کے اندر قوت ہے اور نہ کوئی رائے جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ رائے سردار۔ رئیس۔ کھانے کی لذت۔ کپڑے کی نرمی و صفائی۔ راگ و گانے کی مجلس۔ یہودیوں و نصرانیوں کی عیدیں۔

السَّزْوَرُ: مص۔ کچی۔ سینہ کے بالائی حصہ کی کچی۔

السَّزْوَرُ: منکا۔ کتال۔ ہار یک تانت۔ عادت۔ عورتوں سے بغیر ارادہ و ہدی کے بات چیت کرنے کو پسند کرنے والا۔ جِ اَزْوَارٌ وَاَزْوَارٌ وَزِيْوَرَةٌ: الزَّوِيْرَةُ: ملاقات کی ہیئت۔ کتال کا ٹکڑا۔

الزَّوِيْرُ: دو ٹکڑیاں جن سے سلوتری گھوڑے کے ہونٹوں کو دیا کر قابو میں کرتا ہے۔ اس سے فعل کا اشتقاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں زَيْرُ السَّفَرَسِ (وَالزَّوَارُ): ہر وہ چیز جس سے دوسری چیز کی درستی ہو۔ سینہ بند اور تنگ

کرنا۔ کہا جاتا ہے "هُم يَتَزَاوَرُوْنَ وَبَيْنَهُمْ تَسَاوَرٌ" وہ آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ (وَأَزْوَرُوْ)۔ اِسْتَزَاْرَهُ: ملاقات کے لئے کہنا۔

النَّزْوَرُ: مص۔ سینہ کے درمیان کا بالائی حصہ یا سینہ کی ہڈیوں کے ملنے کی جگہ اور اسی سے ہے "فَرَسٌ عَرِيضُ النَّزْوَرِ" چوڑے سینہ والا گھوڑا اور کہا جاتا ہے "انْفِطَى زَوْرَةٌ" یعنی اس نے اقامت کر لی۔ النَّزْوَرُ: پختہ ارادہ عقل۔ خیال جو خواب میں آئے۔ زیارت کرنے والا (واحد شتہ جمع مذکر مؤنث سب کے لئے) کہا جاتا ہے زَجَلٌ زَوْرٌ اِمْرَاةٌ زَوْرٌ وَرَجَالٌ زَوْرٌ وَنِسَاءٌ زَوْرٌ: سردار۔ رئیس۔ درخت خرما کی شاخ کہ جس میں پتے ابھی نہ نکلے ہوں۔ پتھر جو کتوں کھودتے وقت نکل آئے اور اس کو توڑ نہ سکیں اور چھوڑ دیں۔

النَّزْوَرُ: عقل۔ جھوٹ۔ باطل۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا قوت۔ کہا جاتا ہے "مَسْأَلُهُ زَوْرٌ وَلَا حَبْوُورٌ": نہ تو اس کے اندر قوت ہے اور نہ کوئی رائے جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ رائے سردار۔ رئیس۔ کھانے کی لذت۔ کپڑے کی نرمی و صفائی۔ راگ و گانے کی مجلس۔ یہودیوں و نصرانیوں کی عیدیں۔

السَّزْوَرُ: مص۔ کچی۔ سینہ کے بالائی حصہ کی کچی۔

السَّزْوَرُ: منکا۔ کتال۔ ہار یک تانت۔ عادت۔ عورتوں سے بغیر ارادہ و ہدی کے بات چیت کرنے کو پسند کرنے والا۔ جِ اَزْوَارٌ وَاَزْوَارٌ وَزِيْوَرَةٌ: الزَّوِيْرَةُ: ملاقات کی ہیئت۔ کتال کا ٹکڑا۔

الزَّوِيْرُ: دو ٹکڑیاں جن سے سلوتری گھوڑے کے ہونٹوں کو دیا کر قابو میں کرتا ہے۔ اس سے فعل کا اشتقاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں زَيْرُ السَّفَرَسِ (وَالزَّوَارُ): ہر وہ چیز جس سے دوسری چیز کی درستی ہو۔ سینہ بند اور تنگ

کرنا۔ کہا جاتا ہے "هُم يَتَزَاوَرُوْنَ وَبَيْنَهُمْ تَسَاوَرٌ" وہ آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ (وَأَزْوَرُوْ)۔ اِسْتَزَاْرَهُ: ملاقات کے لئے کہنا۔

النَّزْوَرُ: مص۔ سینہ کے درمیان کا بالائی حصہ یا سینہ کی ہڈیوں کے ملنے کی جگہ اور اسی سے ہے "فَرَسٌ عَرِيضُ النَّزْوَرِ" چوڑے سینہ والا گھوڑا اور کہا جاتا ہے "انْفِطَى زَوْرَةٌ" یعنی اس نے اقامت کر لی۔ النَّزْوَرُ: پختہ ارادہ عقل۔ خیال جو خواب میں آئے۔ زیارت کرنے والا (واحد شتہ جمع مذکر مؤنث سب کے لئے) کہا جاتا ہے زَجَلٌ زَوْرٌ اِمْرَاةٌ زَوْرٌ وَرَجَالٌ زَوْرٌ وَنِسَاءٌ زَوْرٌ: سردار۔ رئیس۔ درخت خرما کی شاخ کہ جس میں پتے ابھی نہ نکلے ہوں۔ پتھر جو کتوں کھودتے وقت نکل آئے اور اس کو توڑ نہ سکیں اور چھوڑ دیں۔

النَّزْوَرُ: عقل۔ جھوٹ۔ باطل۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا قوت۔ کہا جاتا ہے "مَسْأَلُهُ زَوْرٌ وَلَا حَبْوُورٌ": نہ تو اس کے اندر قوت ہے اور نہ کوئی رائے جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ رائے سردار۔ رئیس۔ کھانے کی لذت۔ کپڑے کی نرمی و صفائی۔ راگ و گانے کی مجلس۔ یہودیوں و نصرانیوں کی عیدیں۔

السَّزْوَرُ: مص۔ کچی۔ سینہ کے بالائی حصہ کی کچی۔

السَّزْوَرُ: منکا۔ کتال۔ ہار یک تانت۔ عادت۔ عورتوں سے بغیر ارادہ و ہدی کے بات چیت کرنے کو پسند کرنے والا۔ جِ اَزْوَارٌ وَاَزْوَارٌ وَزِيْوَرَةٌ: الزَّوِيْرَةُ: ملاقات کی ہیئت۔ کتال کا ٹکڑا۔

الزَّوِيْرُ: دو ٹکڑیاں جن سے سلوتری گھوڑے کے ہونٹوں کو دیا کر قابو میں کرتا ہے۔ اس سے فعل کا اشتقاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں زَيْرُ السَّفَرَسِ (وَالزَّوَارُ): ہر وہ چیز جس سے دوسری چیز کی درستی ہو۔ سینہ بند اور تنگ

کے درمیان کی رسی۔ جِ اَزْوَرَة۔
الزَّوْرُ: غضبناک۔

السَّزَاةُ: اونٹوں کا گلہ۔ بانس، نزل وغیرہ کی
جھاڑی جس میں پانی بھی ہو (.....) والسَّزَاةُ
والزَّوْرَة (والزَّوْرَة): پونا۔ زَاوْرَة القَطَا:
تلا پرنہ کا وہ حصہ جس میں وہ اپنے بچوں
کے لئے پانی لے جائے۔

السَّزْوَرُ: سخت چال۔ سخت۔ ستر کے لئے تیار
کیا ہوا اونٹ (.....) والسَّزْوِيسِ والسَّزْوِيسِ:
سر اور قوم۔ رئیس قوم۔

السَّزْوَرَة: زار۔ کا اسم مرہ۔ دوری اونٹنی جو
شدت و صلابت کی وجہ سے ٹھکیوں سے
دیکھے۔

الْأَزْوَرُ: نیزھے سینے والا۔ باریک وسط سینہ
والا۔ مائل ہونے والا۔ ترچھی نظر سے دیکھے

والا۔ مَوْنَتْ زَوْرَاءُ: جِ زَوْرُ: کہا جاتا ہے
"قَوْمٌ عَنِ مَوَاقِفِ السَّحْقِ زَوْرٌ" حق کے
مواقع سے ہٹی ہوئی قوم۔

الزَّوْرَاءُ: گہرا کنواں۔ کمان۔ پیالہ۔ چاندی
کا برتن۔ شہر بغداد۔ و جلد بغداد۔ فَلَاةُ
زَوْرَاءُ: دور دراز بیابان۔ كَلِمَةُ زَوْرَاءُ: گھٹیا
بات۔ مَنَارَةُ زَوْرَاءُ: ٹیڑھا منارہ۔

الزَّوَارُ وَالزَّوْرُ: بہت ملاقات کرنے والا۔
السَّزَارُ: مص۔ ملاقات۔ زیارت کرنے کی
جگہ۔ جِ مَزَارَاتُ۔

السَّزْوِيسِيَاءُ: بحر اوقیانوس کے ساحل پر پیدا
ہونے والا ایک پھول دار جس کو مچھلی پسند
کرتی ہے۔

الزَّوْرُقُ: چھوٹی شئی۔

الزَّوْشُ: کمینہ غلام۔

الْأَزْوَشُ: بتکبر و مغرور۔

زَوْطٌ: بڑے نھے بنانا۔

الْأَزْوَطُ: جس کی ایک آنکھ تک سوراخ والی
ہو۔

زَاعٌ يَزْوُوعٌ زَوْعًا: فَلَانًا: روکنا۔ آگے
دھکیلنا..... السَّذَابَةُ: جانور کو تیز چلانے کے
لئے لگام ہلانا..... الشَّيْءُ: موثر نالہ من

الْبَطِيخَةُ (زَوْعَةٌ): خربوزے کی قاش اتار کر
دینا..... وتَزْوُوعٌ السَّخْمُ: گوشت کا پٹھے
سے اتر جانا۔

زَوْعٌ: الابلُ: متفرق کرنا۔ پراگندہ کرنا۔
السَّزْوَعَةُ: لوگوں کی ایک جماعت..... مَن
الْبَطِيخَةُ وَنَحْوَهَا: خربوزہ وغیرہ کی پھانک
قاش..... مَن السَّبَبِ: گھاس کا وہ حصہ جو
خشک ہونے لگے۔

السَّزَاعَةُ: پولیس کی جماعت (جمع ہے مثل
بَاعَةِ وَسَادَةِ) کے

الزَّوْعُ وَالزَّوْعُ: بکڑی۔

زَاعٌ يَزْوُوعٌ زَوْعًا: الشَّيْءُ: کسی چیز کو جھکانا
..... السَّنَاقَةُ: اونٹنی کو مہار سے کھینچنا۔

(.....) زَوْعًا وَزَوْعَانًا: مائل ہونا۔ ظلم کرنا
..... البَصْرُ: نگاہ میں ہونا۔

أَزَاغَةُ إِزَاغَةٌ: جھکانا۔

الزَّوَاعُ: کوا۔

زَافَتْ تَزْوَفُ زَوْفًا: العَصَامَةُ: کبوتر کا باز
و دم کو پھیلا کر زمین پر کھینچنا..... الطَّائِرُ فِي
الْهَوَاءِ: پرنہ کا فضا میں گولائی میں اڑنا.....

السَّرْجُلُ: مرد کا ہاتھ پاؤں چھوڑ کر اعضاء
ڈھیلے کر کے چلنا..... السَّمَاءُ: پانی کا ٹیلے والا
ہونا..... وتَزَاوَفَ: اپنے آپ کو ہلکا پھلکا
کرنے کے لئے ورزش کی مشق کرنا۔

الزَّوْؤُفُ: چلنے میں ڈھیلا پن۔

الزَّوْطِيُّ وَالزَّوْطَاءُ: ایک دو اک نام۔

زَوْقٌ: السَّكْلَامُ: آراستہ کرنا۔ مزین کرنا
..... التَّيْتُ: نقش و نگار کرنا..... اللِّدْرَهَمُ: پارہ
کا طع کرنا۔

الزَّوْاقُ: لڑکی کی زینت۔

السَّزْوَقَةُ: گھروں میں نقش و نگار کرنے
والے۔

الزَّوْؤُقِيُّ وَالزَّوْؤُقِيُّ: پارہ۔

زَاكٌ يَزْوُوكُ زَوْكًا وَزَوْكَانًا: موٹھوں
کو حرکت دینا اور ناگوں کو کشادہ کرنا۔ تکبر
سے چلنا۔

تَزَاوَاكَ تَزَاوَاكًا: شرم کرنا۔

الزَّوْكَ: مص۔ کوسے کی چال۔
ذَالٌ يَزْوُلُ زَوَالًا وَزَوَالًا وَزَوَالًا وَزَوَالًا
و زَوُولًا وَزَوِيلًا: جاتا رہنا۔ پھر جانا اور

اسی سے ہے۔ "ذَالٌ عَنْهُ مُلْكُهُ": اس کی
سلطنت جاتی رہی۔ جدا ہونا۔ ہلاک ہونا
(.....) زَوَالٌ: حرکت کرنا اور اسی سے ہے
"أَزَى النُّجُومُ تَزْوُلٌ وَلَا تَغِيْبُ": یعنی میں
دیکھ رہا ہوں کہ ستارے حرکت کر رہے ہیں
اور غائب نہیں ہوتے۔ و "فَلَانٌ يَزْوُلُ فِي
السَّاسِ": فلاں لوگوں میں بہت چتا پھرتا
ہے۔

ذَالَتْ: (ن) ذَوَالًا وَزَوُولًا وَزَوُولًا
و زَوَالًا: الشَّمْسُ: آفتاب کا ڈھلنا۔ الخَيْلُ
بِرُكْبَانِهَا: لے کر اٹھنا اور اسی سے ہے "زَيْلٌ
بَسْعَيْبِهِ": یعنی اس کی غش اٹھائی گئی۔ کہا جاتا

ہے "ذَالٌ ذَانِلُ الظِّلِّ": یعنی دو پہر ہو گئی۔
و "ذَالٌ أَوْزَيْلٌ زَوَيْلُهُ وَزَوَالُهُ": ڈر اور
خوف کی وجہ سے اس کی جانب جھک گئی۔

أَزَالَهُ وَزَوَلَهُ وَإِذْ ذَالَهُ: بنا نا۔ کہا جاتا ہے
"أَزَالُ اللَّهْ زَوَالَهُ": یعنی اللہ سے ہلاک
کرے۔ زَوَلُ الشَّيْءِ: کسی چیز کو لانا۔

زَوَالُهُ: کوشش کرنا۔ قصد کرنا۔ تلاش کرنا۔
تَزْوُلُ الشَّيْءِ: کسی چیز کو لانا..... الغَلَامُ:
لڑکے کا انتہائی زیرک و ظریف ہونا۔

تَزَاوَلُ القَوْمُ: باہم کوشش کرنا۔

إِنْزَالٌ عَنْهُ: جدا ہونا۔

إِزْوَالٌ إِزْوَالًا: الشَّيْءُ: زائل ہونا۔

السَّزْوُلُ: مص۔ تجب۔ عجیب۔ کہا جاتا ہے
"سَيَّرَ زَوُلٌ": یعنی عجیب سیر۔ و "سَفْوَةٌ
زَوَلَةٌ" عجیب مردی۔ السَّزْوُلُ: وجود انسانی۔
فیاض مرد سبک و ظریف و زیرک۔ بمبارد۔
بلا۔ جِ أَزْوَالُ۔

السَّزْوَالُ: مص۔ سورج کا ڈھلنا۔ کہتے ہیں
"السَّاعَةُ الرَّابِعَةُ زَوَالِيَّةٌ"۔

السَّزَائِلُ: فنا۔ کہا جاتا ہے "لَيْلٌ زَائِلٌ
النُّجُومُ": یعنی لمبی رات۔

الزَّوَالُ: بہت حرکت کرنے والا۔

الزائلة. الزائل. کامونٹ۔ زندہ یا متحرک چیز۔ ج زواہل. الزواہل۔ ستارے۔ عورتیں۔ شکار۔

الزویل. مصل۔ حرکت۔ جانب۔

المزولة. دھوپ گھڑی۔ ج مزاول۔

زام يزوم زوما. الزجل. مرنا۔

الزام. ہر چیز کی چوتھائی۔ زام من النهار: دن کی چوتھائی۔ زامان من النهار: دن کا نصف حصہ۔

الزامة. جماعت۔ گروہ۔ ج زامات.

السؤوم. عند الغامة: عوام کے نزدیک کسی چیز کا شہرہ یا پھوڑا ہوا اور اس کے لئے فصیح لفظ السخ ہے وہ پانی جس سے کپڑا دھویا جائے اور اس کے لئے فصیح لفظ الغسالة ہے۔

الزويم. ہر چیز کا ڈھیر۔

زومل. الابل: اونٹوں کو بانگنا۔

الزوملة. مصل۔ گدھے مع بوجھوں کے۔ کہا جاتا ہے "هو ابن زوملتها" وہ اس کا جاننے والا ہے۔

الزبان. بد مضمی۔

الزؤن والزؤن والزؤن: پست قدم۔ الزؤن: پست یا مندر۔

الزؤنة. زینت۔ سمجھ اور عورت۔

الزؤان والزؤان والزؤان: دیکھئے الزؤان بالهؤمة.

زؤی نزوی زویا وزیا. الشی: جدا کرنا۔ کیسو کرنا۔ روکنا۔ جمع کرنا۔ قبض کرنا۔

الصال وغيره: اکٹھا کرنا عنده السير: راز کو پوشیدہ رکھنا۔ عنه حقه: کسی کا حق روک لینا۔ الدهر القوم: زمانہ کا قوم کو تباہ و برباد کرنا۔

زؤی و تزؤی و انزؤی: گوشہ نشین ہونا۔ تزؤی و انزؤی: سکرنا۔ زؤی الكلام: دل میں سوچنا۔ انزؤی القوم بغضهم الی

بغض: سمننا۔ ایک دوسرے کے قریب ہونا۔

الزاوية. من الثيب: گوشہ۔ ج زوايا.

الزاوية. عند الحجارين والنجارين

وغيرهم" دو مستقیم ضلعوں کا ایک آلہ کہ جس کے ضلعوں کا ایک ایک سرا یا ہم اس طرح جڑا ہوا ہوتا ہے کہ ان کے درمیانی گوشہ زاویہ قائمہ بن جاتا ہے۔

تزئب. لخمه: گوشت کے ٹوٹنے سے بنا۔

الزئب: ہوا کی تیزی۔

زجل (زئب و اؤب): بہادر و دلیر مرد۔

الازئب: شادماں۔ پست قدم۔ قریب قریب قدم رکھنے والا۔ کینڈ۔ منہ بولا بیٹا۔ اجنبی۔ امر بد۔ بلا مصیبت۔ دشمنی۔ بہت پانی۔ شادمانی۔ سببی۔ جنوبی ہوا۔

الازئب: شدید۔ بخیل۔

الزئبق: پارہ۔

ذات يزئب زئبا وزئب. الطعام: کھانے میں زیتون کا تیل ذالنا..... الشی: کسی چیز پر زیتون کا تیل لگانا..... القوم: لوگوں کو

زیتون کا تیل کھلانا یا توشہ دینا۔

ازات ازائة: بہت تیل والا ہونا۔

ازادات ازدياتا: روغن زیتون ملنا۔

استرات: روغن زیتون طلب کرنا۔

الزئب: مصل۔ زیتون کا تیل۔ ج زئبوت و (السزئبات): تیلی۔ زیت کا اطلاق مطلقاً

تیل کے لئے بھی ہوتا ہے۔ چاہے وہ کسی چیز کا ہو۔

الزئبون: زیتون کا درخت۔ زیتون کا پھل۔ واحد زئبونة.

الزئبونية: وہ درخت جس کے پتے درخت زیتون جیسے ہوتے ہیں اس کے پھول زرد اور خوشبودار ہوتے ہیں۔ وہ مشرق وسطیٰ میں

بہت پیدا ہوتا ہے لوگ دوران سفر اس کو استعمال کرتے ہیں۔

الجزئبة: مخصوص تیل کی طویل بوتل جس کے ساتھ اوزار کو تیل لگایا جاتا ہے۔

الزئبونی: زیتون کے رنگ والا۔

السمزئب والسمزئبوت: جس میں تیل استعمال کیا گیا ہو۔

الزئب: گاڑی کا میٹر جس کے ساتھ گاڑی کی

رقم نامعلوم ہوتی ہے۔

الزئج: معماری کی ڈوری جس سے وہ دیوار کی ہمواری کا اندازہ کرتے ہیں۔ علم نجوم کی اصطلاح میں وہ جدول جو سیاروں کی

رقم نام لگاتی ہے۔ جتزی۔ ج زئجات وزئجة (دخیل)

زأخ يزئخ زئخا وزئخا وزئوخا وزئوخا وزئخانا والزأخ: دور ہونا۔ چلے جانا۔ زأخ اللئام: نقاب اُتارنا۔ کھولنا۔

أزأخه: دور کرنا۔ لے جانا۔

المزأخ: دور چلے جانے کی جگہ۔

زأخ يزئخ زئخا وزئخا: ظلم کرنا۔ علیحدہ ہونا۔

أزأخه: علیحدہ کرنا۔

تزئج: فروتنی کرنا۔

زأد يزئد زئدا وزئدا وزئدا وزئدا: بڑھنا۔ زیادہ ہونا۔

الشئ: بڑھانا زیادہ کرنا..... فلان: زیادہ دینا۔

زأيد: بڑھنے میں مقابلہ کرنا۔

السمزأيدة: بولی کی بھیجی کوئی چیز بیچ کے لئے پیش کی جائے اس پر مختلف افراد زیادہ قیمت لگائیں جو زیادہ لگا دے اس کو حق خرید مل جائے۔

تزئد. السغر: بھاؤ گراں ہونا..... الزجل فی حدیبہ: واقع سے زیادہ بیان کرنا..... فی الشئ: بڑھانے میں تکلف کرنا۔

تزأيد. فی حدیبہ: واقع سے زیادہ بیان کرنا۔

تزأيدوا فی ثمن السلعة: ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی دینا۔

أزأاد: زیادہ ہونا۔ زیادہ کرنا۔ زیادہ طلب کرنا۔

إسزأاد: زیادہ طلب کرنا۔ کوتاہی کرنے والا۔ سمجھنا اور شکایت کرنا۔

الزأيد: فامونٹ زأيدة. زأيدة الكبد: جگر کا چھوٹا سا ٹکڑا جو اسی کے ساتھ ایک

جانب میں ہوتا ہے۔ ج ذوائد۔ والذوائد
 ومن الاسنان کچلیوں کے قریب والے
 دانت۔
 الزيادة: مص۔ جو چیز بڑھائی جائے۔ ج
 زيادات وزيائد وزيادة الكجد بمعنى زيادة
 الكجد۔
 الزيد والزويد: زيادتی۔ بڑھاؤ۔ کہا جاتا ہے
 "لهم زيد على ما لله" وہ سوسے زائد ہیں۔
 السزید: مص وفتح۔ کہا جاتا ہے "لا مزید
 على هذا الامر" یعنی اس معاملہ میں زیادہ
 گنجائش نہیں۔
 السزادة: توشردان۔ چڑے کے کئی نکلے
 ملا کر ایک تھیلا سا بناتے ہیں جس میں پانی
 رکھتے ہیں۔ زبر: دیکھئے مادہ (زور)
 السزیز: ایک کبیرا جو درختوں پر رہا کرتا ہے
 اور زیر زبر کی آواز نکالتا ہے۔
 السزوی والسزواء والسزواء والسزوية:
 چھوٹا سانپ یا سخت زمین۔ پر یا اس کے
 کنارے۔ ج السزوی۔
 السزوية: پھیر۔
 السزويث: چھوٹے چھوٹے پروں والے
 کیڑے۔
 السزيفون: ایک درخت ہے جس کے پھول
 کو پانی میں جھک کر دو استعمال کرتے ہیں اور
 امثال عرب میں سے ہے۔ هو السزيفون
 يزهر ولا يجبر: وہ زیفون: کی مانند ہے
 پھول تو دیتا ہے پھل نہیں۔
 زاط بزيط زيطا وزياطا: شور مچانا اور بہت
 جھگڑنا۔ صفت (زياط)
 زاع يزيع زيفا وزيغانا وزيغوة: جھکتا۔
 ميزها ہونا۔ البصر: نگاہ کا تھکتا۔
 زغفة: ميزھا کرنا۔ سچی درست کرنا۔
 لراغة. عن الطريق: بدراہ کرنا۔ السزجل:
 سچی میں ڈالنا۔
 تزايغ: جھکتا۔
 الزايغ. فاج زاعة وزيغون.
 الزاغ: ایک قسم کا کوا جس کے پیٹ اور پیٹھ

کے پر کچھ سفیدی مائل ہوتے ہیں اور ایک قسم
 ہے الزاغ الجيفي: جو مردار کھاتے ہے۔
 ج زيغان.
 الزبيغ: مص۔ حق سے اعراض۔ شک۔
 الزبوغ: جھکاؤ۔
 زافت (ض) زبوغا. الدرهم: کھوٹے
 ہونا۔ زافت زبوغا الدرهم: کھوٹے کرنا
 یا کھوٹے بھینا۔ السحائط: دیوار پھاندنا
 (..... زبوغا وزيغانا): منک کر چلنا۔
 البعير: اونٹ کا جھکتے ہوئے دوڑنا۔
 زيف. الدرهم: کھوٹے بنانا یا بھینا۔
 السزجل: حقارت کرنا۔ السناء: بلند ہونا۔
 تزيفت. الدرهم: کھوٹے ہونا۔
 السزالف: فاشیر۔ السزالف: کھوٹا
 درہم۔ ج زيف وزيوف
 السزيف: بھچھو جو دیوار کی حفاظت کے لئے
 ہوتا ہے۔ نکرہ۔ سزغی کے پائے۔ ج
 زيف وازيف وزيوف اور کہا جاتا ہے
 "يزههم زيف" کھوٹا درہم۔
 السزيف: منک کر چلنے والا۔ شیر۔ موش
 وزيافة.
 زيق. القوب: کپڑے میں گوٹ لگانا۔
 تزيفت. المرأة: زینت کرنا۔ سر مد لگانا۔
 السزيق. من القوب: کپڑے کی گوٹ۔
 معماروں کی ڈوری جس سے وہ دیوار کی
 ہمواری کا اندازہ کرتے ہیں۔
 زاک (ض) زبگانا: تاز و تکبر سے چلنا۔
 السزیک: چھوٹے جواہر جو بڑے جواہر کے
 گردا گرد بڑے ہوئے ہوں۔
 زاله يزاله ويزيله زيلاً. عن مكابه: بنانا۔
 علیحدہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "مازلت أعمل" میں
 ہمیشہ کرتا رہا۔ ومازلت بزيد ومازلت
 زيدا حتى فعل" میں ہمیشہ زید کے ساتھ لگا
 رہا یہاں تک کہ اس نے کر دیا۔ "زلت
 أعمل" بمعنی "مازلت أعمل" حرف نفی کی
 تقدیر سے اور یہ قلیل الاستعمال ہے۔
 إزالة إزالة وإزالة. عن مكابه: بنانا۔

ذيلة: متفرق کرنا۔ پراگندہ کرنا۔
 ذائلة: ہا ہم دگر جدا ہونا۔
 قزائلو وقزائلوا: پراگندہ ہونا۔ جدا ہونا۔
 عنه: شرم کرنا۔ کہا جاتا ہے "أنا قزائل
 عنك فلا أتجاسر عليك" میں تم سے
 شرم کرتا ہوں اس لئے میں تمہارے سامنے
 دلیری نہیں کر سکتا۔
 السزئيل: دونوں رانوں کے درمیان کی
 دوری۔
 الأزئيل: دونوں رانوں کے درمیان فاصلہ
 والا۔ السزجل (سزئیل و مزئیل): خوش طبع۔
 زیرک۔
 زام يزيم ويزام زيماً. لفلان فاسكتنه
 : ایک گلہ بول کر خاموش کر دینا۔
 تزيمت. الخيل وغيرها: گھوڑے وغیرہ کا
 پراگندہ ہونا۔ السخيم: گوشت کا ٹکڑے
 ٹکڑے ہونا۔ آپس میں گھٹا ہوا ہونا۔
 الزيممة: گوشت وغیرہ کا ٹکڑا۔ ج زيم.
 زانه يزينه زيناً. زينت دينا
 الشئ: خوبصورت بنانا۔ آراستہ کرنا۔
 زينته تزيننا وأزانه إزانه إزياناً
 زينت دينا۔
 تزين تزينا وإزين إزياناً وإزدان إزداناً
 وإزين إزياناً وإزيان إزياناً: آراستہ
 ہونا۔
 الزاين: فاعل المرأة: آراستہ عورت۔
 السزین: مص۔ آراستی۔ ج أزيان.
 الزين: ایک درخت کا نام جس سے تیر بناتے
 ہیں۔ زين الدينك: مرغ کی کالی۔
 السزان: بلوط کی قسم سے ایک درخت جس کی
 نکڑی مضبوط ہوتی ہے اس کے پھول سے
 مفید غذائی تیل نکالا جاتا ہے اور وہ خوبصورتی
 کے لئے بویا جاتا ہے۔
 الزانة: بدبھنسی۔
 السزينة: انتہائی خوبصورت پھول کی قسم جس
 کی اہمیت باغوں میں بہت ہے۔ Zinnia
 السزوية: ذوائبہ مستقیمہ: وہ زاویہ جس

ذی	ذریں
زَیْسَاہ تَزْیِیَۃٌ: پوسٹاک پہنانا۔ کہا جاتا ہے "ہلبہ زَیْحٰی فَزْیِیَہَا" یعنی اس کو حرف زاء سے پرہو۔	کے دونوں ضلع نقطہ زاویہ کے دونوں جانب برابر ہوں۔ دونوں جانب کو دو ضلع کا نام دیا جاتا ہے۔ نقطہ کو رَاسُ الزاویہ کہا جاتا ہے۔
تَزْیَا: آراستہ ہونا..... بَزْیِ القَوْم: قوم کا لباس پہننا۔	زاویہ قائمہ مستقیمہ: کا نصب ہوتا ہے۔ زاویہ حادہ: قائمہ سے زیادہ چھوٹا ہوتا ہے۔ زاویہ منفرجہ: قائمہ سے بڑا اور مستقیمہ سے چھوٹا ہوتا ہے۔ ناقصہ مستقیمہ سے چھوٹا ہوتا ہے۔ منعکسہ: مستقیمہ سے
السَّوْی: ہیئت۔ شکل۔ پوش۔ کہا جاتا ہے "أَقْبَل بَزْیِ العَرَب" وہ عرب۔ لباس میں آیا وُجاءُ لَمَ بَزْیِ عَرَبٍ" وہ ہمارے پاس عجیب لباس میں آیا۔ مع اَزَّاء۔	السَّوْیَان: خوبصورت۔ کہا جاتا ہے "قَمْرُ زَیَان" خوبصورت چاند۔ الزَیَان: ہر وہ چیز جس سے زینت کی جائے۔ المَزْیِن: فا۔ نائی۔ (مولد)



س : السین : بنیادی حروف میں سے
بارہواں حرف ہے۔

السین : فعل مضارع کو مستقبل قریب کے معنی
کے لئے خاص کر دیتا ہے۔

سَأَيْبُهُ (ف) سَأَيْبًا : گلا گھونٹنا.....

السِقَاءُ : مشک کو کشادہ کرنا..... وَسَيْبُ
(س) سَأَيْبًا مِنْ الشَّرَابِ : آسودہ و سیراب
ہونا۔

السَّابِ : مصص۔ بڑی مشک۔ سَجَسُوْبُ
السُّوْبَانِ : مال کا بہترین منتظم۔

المِسَابُ : بڑی مشک۔ بہت پانی پینے والا۔
سَأْتَهُ (ف) سَأْتًا : گلا گھونٹنا۔ گلا گھونٹ کر مار
ڈالنا۔

السَاتِ : گلے کی ایک جانب۔

سَأَذُهُ (ف) سَأَذًا وَسَأَذًا : گلا گھونٹنا۔

سُنَيْدٌ : کھاری پانی کے پینے سے بیمار ہونا۔
صفت (مسنود)

سَنِيدٌ (س) سَأَذًا : پینا..... الْجَرْحُ : زخم ٹوٹ
کر بہنا۔ صفت (سنید)

أَسَاءَ إِسَاءًا : ساری رات چلنا۔ کہتے ہیں
"أَسَعَدَ يَوْمَهُ إِسْعَادًا مِنْ أَسَاءٍ وَلَيْلَةً
إِسَاءًا" جو شخص ساری رات چلتا رہا اس نے
اپنے دن کو کامیاب بنایا۔

السُّوَادُ : کھاری پانی پینے کی وجہ سے
پتاری۔

السُّوْدَةُ : بقیہ جوانی۔

المِسَادُ : تیل یا شہد کی مشک۔

سَأَزُ (ف) سَأَزًا وَأَسَاَزُ : الشَّرَابُ فِي

الإِنَاءِ : کچھ باقی چھوڑنا۔ صفت (سَأَزُ) اور
کہا جاتا ہے "أَسَاَزُ الخَاسِبِ فِي حِسَابِهِ"
حساب لگانے والے نے حساب کو پوری
طرح سے نہیں کیا۔

سَبْرٌ (س) سَأَزًا : الشَّيْءُ : باقی رہنا۔

تَسَاَزٌ : النَّيْبُذُ : جھوٹا نیبڈ پینا۔

السُّوْرُ : جھوٹا پانی وغیرہ۔ بقیہ سَأَسَارُ : کہا
جاتا ہے "هُوَ سُورٌ شَرٌّ" وہ شریر ہے۔

السُّوْرَةُ : بقیہ جوانی۔ مِنَ المَالِ : عمدہ مال۔
سَجَسُوْرٌ۔

السَّائِرُ : فَاءٌ مِنَ الشَّيْءِ : بقیہ۔

سَأَسَأَ سَأَسَاءَةً : بالخَمَارِ : گدھے کو روکنے
کے لئے ڈانٹنا پینے یا چلنے کے لئے آواز
دینا۔

تَسَاَسَاتٍ : الأُمُورُ : مختلف ہونا۔

سَأَفْتُ (ف) سَأَفًا وَسَفِيئَتْ (س)
سَأَفِيئَةٌ : ناخن کے ارد گرد پھٹنا۔ ہاتھ کی
صفت (سَفِيئَةٌ) : سَفِيئٌ وَأَسَافٌ : لِيْفٌ

النَّخْلِ : پھٹنا۔ پر اگندہ ہونا۔ چھلنا۔
السَّافُ : بھجور کی شاخ۔ دم کے بال۔

السَّابِقَةُ : ریت کے تودے کے نیچے کی
باریک ریت۔ سَجَسُوْفٌ۔

سَأَلُ (ف) سَأَلًا وَسَأَلَةً وَمَسْأَلَةً
وَقَسْأَلًا : طلب کرنا۔ مانگنا۔ درخواست
کرنا۔ اس کا تعدیہ دو مفعول کی طرف ہوتا

ہے۔ جیسے "سَأَلْتُ اللّٰهَ نَعْمَةً" اور جب
استخبار کے معنی میں ہو تو مفعول اول کی طرف

بغض اور مفعول ثانی کی طرف عن سے متعدی

ہوتا ہے جیسے سَأَلْتُهُ عَنْ حَاجَتِهِ" اور بھی
ہمزہ کی تخفیف ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے "سَأَلَ
يَسْأَلُ سَلًّا" مثل خَافَ يَخَافُ خَفًّا
اور اسم مفعول "مَسْئُولٌ" مانند خوف کے۔

سَاءَ لَهُ وَسَأَيْلُهُ مُسَاءَةً لَهُ وَمُسَائِلَةٌ وَسَأَلٌ
عَنْهُ : بمعنی سال۔

أَسْأَلُهُ : سُؤْلُهُ وَسُؤْلَتُهُ وَمُسْأَلَتُهُ : حاجت
پوری کرنا۔

تَسَأَلُ وَتَسْؤُلُ : مانگنا۔

تَسَاءَلٌ وَتَسَاوَلٌ : القَوْمُ : ایک دوسرے
سے پوچھنا۔

السُّؤْلُ وَالسُّؤُلُ وَالسُّؤْلَةُ وَالسُّؤْلَةٌ :
درخواست۔ التجا۔

السَّأَلُ وَالسُّؤْلَةُ وَالسُّؤُولُ : بہت سوال
کرنے والا۔

السَّائِلُ : فاءٌ۔ مانگنے والا۔ سَجَسَائِلُونَ وَسُؤُولٌ
وَسُؤُولٌ وَسَأَلَةٌ۔

المَسْئَلَةُ : حاجت۔ مطلب۔ سَجَسَائِلٌ :
المَسْئُولِيُّ : ذمہ داری۔

سَسِمٌ (س) سَسِمَةٌ وَسَسَمًا وَسَسْمَةٌ وَسَسْمًا
وَسَسَامَةٌ : الشَّيْءُ وَمِنْهُ : کسی چیز سے ملول
ہونا۔ اکتا جانا۔ صفت (سَسُوْدَمٌ)

أَسَأَمُهُ إِسْأَمًا : لول کرنا (اکتا دینا)

سَأَا (ن) سَأَوًا : دوزخا..... الشَّيْءُ : کسی چیز
کی نیت کرنا۔ قصد کرنا..... السَّرْجَلُ :..... کسی
کو ٹھکن کرنا..... السُّوْبُ : کپڑے کو کھینچ کر

پھاڑنا۔ بَيْنَهُمْ : لوگوں میں فساد ڈالنا۔

السَّوْرُ : مصص۔ وطن۔ وہ جہت جہاں کا ارادہ

..... غُفَقَ: گردن پر مارنا۔ سُبَّتِ: الرَّجُلُ: نیند کا آ جانا۔ أَسْبَتَ: ہفتہ کے دن میں داخل ہونا۔ أَسْبَتَ: الشَّيْءُ: کسی چیز کا دراز ہونا۔ الْجِلْدُ: کھال کا نرم ہونا..... الْوَجْهُ: چہرہ کا لہنا ہونا۔ أَسْبَتَ: الْيَهُودُ: یہودیوں کا ہفتہ کا دن مٹانا۔ السُّبْتُ: مِصْرَ - سِجْرَ - شَنْبَرَ: رَجَ أَسْبَتَ وَسُبُوتَ: السُّبْتُ: بہت سونے والا۔ عمدہ گھوڑا۔ دلیر لڑکا۔ چالاک مرد۔ زمانہ۔ ہفتہ۔ (..... السُّبُتَةُ): زمانہ کا ایک عرصہ۔ السُّبْتُ: پکائی ہوئی کھال۔ رنگی یا داغت دی ہوئی کھال۔ السُّبْتُ وَالسُّبُتُ: مِطْحَلِي کی مانند ایک پودہ۔ السُّبُتَاتُ: نیند یا اونگھ۔ زمانہ۔ چالاک مرد۔ إِنْسَانِيَّاتُ: دن رات (السُّبُوتَاتُ) ایک قسم کی سمندری مچھلی۔ السُّبُتَانُ: بے وقوف۔ السُّبُتَاءُ: بیابان۔ السُّبُتِيُّ: دلیر۔ پیش قدمی کرنے والا۔ چیتا۔ رَجَ سُبَاتٍ وَسُبَاتِي: مَوْتٌ مَسْبُتَةٌ: السُّبُتَاءُ: زبان دراز عورت۔ السُّبُتُ: فَا: وہ شخص جو مرض وغیرہ کی وجہ سے نہ حرکت کرے نہ آنکھیں کھولے۔ السُّبُوتُ: مِطْحَ: میت یا بے ہوش مرد نما ہوا۔ تَسْبِجُ: سیاہ کبیل اوڑھنا۔ السُّبُجَةُ: كَالَاكِمِلِ: رَجَ سُبُجٍ: بَغِيرَ آسْتِينِ کا کرتا۔ السُّبُجُ: سِيَاهِ مِهْرَے۔ السُّبُجُ: كَالَاكِمِلِ: بِيحْتِے والا۔ قُوْبٌ (مُسْبِجٌ): چوڑا کپڑا۔ سُبُجُ (ف) سُبُجَا: الرَّجُلُ: اپنی معاش کے لئے تصرف کرنا۔ سونا اور آرام لینا۔ دور تک نکل جانا..... عَنِ الْأَمْرِ: قَارِخٌ ہونا۔ فِئِي الْحِكْلَامِ: بہت بولنا..... فِئِي الْأَرْضِ: کھودنا	و تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ“ ان کی دوستیاں اور تعلقات ختم ہو گئے۔ السَّبِيبُ وَالسَّيْبَةُ: بالوں کا گچھا۔ مِنَ الْقُرْسِ: گھوڑے کی دم کے بال۔ گھوڑی کی پیشانی کے بال۔ ایال۔ ج سَبَابُ کہا جاتا ہے ”قَدْ عَقِدْتُ وَأَسْبَابُ خَيْلِهِمْ“ انہوں نے اپنے گھوڑوں کے دم کے بال میں گرہ لگائی۔ السَّيْبَةُ: کتاب کا پارک ٹکڑا۔ السَّبَابُ: بہت گالی دینے والا۔ مَوْتٌ سَبَابَةٌ: الْأَسْبُوتَةُ: باعث گالی۔ کہا جاتا ہے ”بَيْنَهُمْ أَسْبُوتَةٌ يَتَسَابَوْنَ بِهَا“ ان کے درمیان گالی کا سبب ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں۔ السَّبَابَةُ وَالْمَسْبَةُ: اُكْثَتْ شَهَادَاتُ سَبَا (ف) سَبَا وَسَبَاءٌ وَمَسْبَأُ: الْخَمْرُ: شراب پینے کے لئے خریدنا۔ الْجِلْدُ: کھال اتارنا..... الْجِلْدُ بِالنَّارِ: کھال کو آگ میں جلانا۔ الرَّجُلُ: کوڑے مارنا۔ مَصَافِرُ: كَرْنَا..... النَّازِ الْجِلْدُ: آگ کا کھال کو جھلس دینا۔ أَسْبَأُ..... لِأَمْرِ اللَّهِ: حَكْمُ اللَّهِ کے لئے جھک جانا۔ عَلَى الشَّرِّ: مَطْبُجٌ ہونا۔ إِنْسَبَا: الْجِلْدُ: کھال کا اترنا۔ چھل جانا۔ إِسْبَاءُ: السُّبُتَاءُ: الخمر: شراب کو پینے کے لئے خریدنا۔ السَّبَا وَالسَّيْبَةُ: شراب۔ السَّبَاءُ: مَعْرُوشَ۔ السَّبَابَةُ: دُورَ كَاسْفَرِ۔ السَّبِيحُ: مِنَ الْحَيَاةِ: سَابِقُ كِ الْبَيْتِ الْبَيْتِ: پھاڑی راستہ۔ راستہ۔ سَبَّتَ (ن ض) سَبَّتَا: ہفتہ کے دن میں داخل ہونا۔ سبت مٹانا۔ آرام لینا..... الشَّيْءُ: کسی چیز کو کاٹنا..... السَّرَاسُ: سَرْمُوذْنَا..... الرَّجُلُ: حیران ہونا..... الشَّعْرُ: بال لگانا	کیا جائے اور کہا جاتا ہے ”هُوَ يَسْبُدُ السَّو“ وہ بڑی ہمت والا ہے۔ سَبَّةُ (ن) سَبَا وَسَبِينِي: سخت گالی دینا۔ مقعد میں نیزہ مارنا (سَبَا) السَّخِلُ: رتھی کو کاٹنا۔ الْقُرْسُ: گھوڑے کو زخمی کرنا۔ کوٹھیں کاٹنا۔ سَبَّةٌ: بہت گالی دینا..... الْأَسْبَابُ: اسباب پانا..... لِلْمَاءِ مَجْرِي: پانی کے لئے نالی درست کرنا..... الْأَمْرُ: سبب بننا۔ سَابَةٌ مَسَابَةٌ وَسَبَابًا: گالی دینا۔ تَسَبَّبَ: اسباب ڈھونڈنا..... بِهِ إِلَيْهِ: وسیلہ بننا..... بِالْأَمْرِ: سبب ہونا۔ تَسَابَ: الرَّجُلَانِ: باہم قطع تعلق کرنا اور گالی گھونچ کرنا۔ إِسْتَبَّ: الْقَوْمُ: باہم گالی گھونچ کرنا۔ إِسْتَبَّ: لَدَ: گالی کے لئے پیش کرنا۔ إِسْتَبَّ لَهُ الْأَمْرُ: کام کا درست ہونا۔ السَّبُّ وَالسَّبِيَّةُ وَالْمَسْبُ وَالْمَسْبَةُ: بہت گالی دینے والا۔ السَّبُّ رَجَ سُبُوبٍ: رسی۔ عمامہ۔ کھوٹی۔ کتاب کا پارک ٹکڑا۔ پردہ۔ السَّبِيَّةُ: مِنَ الْخَوَارِيزْمِ وَالذَّهْرِ: عرصہ مقعد۔ السَّبِيَّةُ: اُكْثَتْ شَهَادَاتُ..... عِنْدَ الْمُؤَلَّدِينَ: ہفتہ۔ السَّبِيَّةُ: جس کو لوگ بہت گالی دیں۔ عازبے عزتی۔ السَّبُّ: رتھی۔ ذریعہ۔ راستہ۔ کہا جاتا ہے ”قَالِي إِلَيْهِ سَبَبٌ“ میرے لئے اس کی طرف کوئی راستہ نہیں۔ و ”قَطَعَ اللَّهُ بِهِ السَّبَبُ“ اللہ نے اس کی زندگی ختم کر دی۔ دوستی۔ رشتہ داری۔ فِئِي الْعُرُوضِ: دوحرف متحرک یا ایک متحرک اور ایک ساکن۔ رَجَ أَسْبَابُ: أَسْبَابُ السَّمَاءِ: آسمان کے اطراف یا آسمان میں چڑھنے کی جگہ اور کہا جاتا ہے ”تَغَاطَى الْأَسْبَابُ“ اس نے اُصُورِ معیشت کے اسباب حاصل کئے۔
--	--	--

..... الْقَوْمُ: پھرنا اور زمین میں پھیلنا
 (..... سَبَّحًا وَسَبَّحًا. فِي الْمَاءِ
 وَبِالْمَاءِ): تیرنا اور بطور استعارہ کے گھوڑے
 کی رفتار اور سارے کی چال کے لئے بھی
 استعمال کیا جاتا ہے (..... سُبْحَانًا): سبحان
 اللہ کہنا۔
 سَبَّحَ تَسْبِيحًا: نماز پڑھنا۔ سبحان اللہ کہنا
 اللَّهُ وَلِلَّهِ خَدَاكِي يَا كَيْ بَيَانِ كَرْنَا۔
 اَسْبَحُ: تیرانا۔
 السَّبْحَةُ: سَبَّحَ کا اسم مرہ۔ کھال کے
 کپڑے۔
 السُّبْحَةُ: دعا۔ تم کہتے ہو "قَسْبِيثُ
 سُبْحَتِي" میں نے اپنی دعا پوری کر لی۔ نفل
 نماز۔ سَبَّحَ اللَّهُ: اللہ تعالیٰ کا جلال۔
 سَبَّحَ وَسَبَّحَ وَسَبَّحَاتُ وَنَحْوَهُ اللَّهُ
 : اللہ تعالیٰ کے انوار یا وہ دلائل عظمت جن
 سے باری تعالیٰ کی تقدیس کی جائے۔
 السُّبْحَةُ: روئی کا کھڑا۔
 السُّبْحَةُ: چتر، کٹڑی پلاسٹک یا کسی دھات
 کے ٹکے جو کہ لڑی میں پروئے جاتے ہیں
 تاکہ ان سے اذکار گئے جائیں۔
 سُبْحَانُ: مصل۔ کہا جاتا ہے "سُبْحَانَ
 اللَّهِ" یعنی میں اللہ تعالیٰ کی عبوب و نقائص
 سے پاک بیان کرتا ہوں۔ "سُبْحَانَ مَنْ
 كَذَّبَا" موقع تعجب کے لئے اور یہ اضافت
 کے معنی میں ہے۔ یعنی "سُبْحَانَ اللَّهِ مِنْ
 كَذَّبَا" کے معنی میں۔ "أَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا فِي
 سُبْحَانِكَ" یعنی جو کچھ تیرے نفس میں ہے
 اس کا تو زیادہ جاننے والا ہے۔
 السَّبَّحَةُ: مصل۔ تسبیح کے کلمات۔ سَبَّحَ
 تَسْبِيحًا.
 السَّابِحُ: قاصد۔ سَبَّحًا وَسَبَّحًا
 وَسَبَّحًا: مومنٹ سَبَّحًا سَبَّحًا
 وَسَوَابِحُ. وَالسَّابِحُ مِنَ الْخَيْلِ: تیز رفتار
 گھوڑا۔ السَّوَابِحُ: تیز رفتار گھوڑے۔
 السَّابِحَاتُ: کشتیاں۔ ستارے یا مومنین کی
 ارواح جو آسانی سے قبض کی جاتی ہیں یا

فرشتے جو آسمان و زمین کے درمیان تسبیح
 کرتے رہتے ہیں۔
 السَّبَّاحُ: سَبَّحَ: کا مبالغہ۔ بڑا تیراک۔ سَبَّحَ
 سَبَّاحُونَ.
 السُّبُوحُ: تیراک سَبَّحًا. فَرَسٌ
 سُبُوحٌ: تیز رفتار گھوڑا جو اپنی رفتار میں ادھر
 ادھر نہ ہوتا ہو۔
 السُّبُوحُ وَالسُّبُوحُ: باری تعالیٰ کی صفات
 میں سے ہے۔ اس لئے کہ اس کی تسبیح کی
 جاتی ہے۔
 قُوتٌ (سُبَّحٌ): مضبوط کپڑا۔
 السُّبْحَةُ وَالسَّبَّاحَةُ: انکشت شہادت۔
 السُّبْحَةُ: عِنْدَ الْعَامَةِ: عوام کے نزدیک
 بمعنی نفل نماز۔ سَبَّحَ يَسْبَحُ.
 السُّبْحَةُ: سبحان اللہ کہنا۔
 السُّبْحَةُ: سونا۔ حَجَارِيَةٌ سَبَّحَةُ مَوْتِي لَبِي
 لُوكِي۔
 السُّبْحَةُ: سبحان اللہ کہنا۔
 السَّبَّحُ (ن) سَبَّحًا: گہری نیند سونا۔ قَارِغٌ
 ہونا۔ دور ہونا۔
 السَّبَّحُ (س) سَبَّحًا: الْمَكَانُ: شورے والی
 ہوتا۔ صفت (سَبَّحٌ)
 سَبَّحَ عَنْهُ: ہلکا کرنا۔ کہا جاتا ہے "اللَّهُمَّ
 سَبَّحْ عَنِّي الْحُمَىٰ أَوْ الشَّيْطَانَةَ" اے اللہ مجھ
 سے بخاری یا سختی کو ہلکا کر دے..... الْحَوْرُ: ٹھنڈا
 کرنا..... الْقَطْنُ وَنَحْوَهُ: روئی وضنا.....
 السَّرَّجُلُ: گہری نیند سونا۔ قَارِغٌ ہونا.....
 الْعَوْقُ: رگ کا ساکن ہونا..... الْحَوْرُ: گرمی کا
 کم ہو جانا۔
 السَّبَّحُ: فِي الْخَفْرِ: کھودنے میں زمینی شور
 تک پہنچنا۔ الْمَكَانُ: زمین شور والی ہونا۔
 تَسْبِيحٌ: الْحَوْرُ وَالْقَطْنُ: گرمی یا غصہ کا
 ٹھنڈا پڑنا۔
 أَرْضٌ (سَبَّحَةٌ) سَبَّحًا (وَسَبَّحَةٌ): سَبَّحَ
 سَبَّحَاتُ: زمین شور۔
 السَّبَّحَةُ وَالسَّبَّحَةُ: نمکین و دلدلی زمین۔
 کالی کی مانند جو پانی کے اوپر آجائے۔ سَبَّحَ

سَبَّحًا.
 السَّبَّاحُ: مِنَ الْأَرْضِ: ویران کھیت جو جوتا
 نہ گیا ہو۔
 السَّبَّحُ: روئی کا پھایا یا بکھرے ہوئے پَر
 وغیرہ۔
 السَّبَّحَةُ: دھکی ہوئی روئی کا گالا۔ سَبَّحًا
 : تم کہتے ہو۔ "طَارَتْ سَبَّاحُ الْقَطْنِ" روئی
 کے گالے اڑے۔
 سَبَّحَةُ (ن) سَبَّحًا: السَّبَّحَةُ يَالِ مَوْتِي تَا۔
 شاربہ: مونچوں کا بڑھ کر ہونٹوں کو گھیر لینا۔
 سَبَّحَةُ السَّبَّحُ: بال کا مونڈنے کے بعد لگانا
 الْقَرْخُ: چوزے کے پر لگانا اور سخت ہونا
 الرَّحْلُ: سر میں تیل نہ لگانا۔
 رَأْسُهُ: سر میں کنگھی کرنا اور تر کرنا پھر
 چھوڑ دینا۔
 سَبَّحَةُ: بال کو بڑے مونڈنا.....
 الْعُشْبُ: پرانی گھاس میں نئی گھاس اُگنا۔
 السَّبَّحَةُ: بال مونڈنا..... الْعُشْبُ
 : پرانی گھاس میں نئی گھاس اُگنا۔
 السَّبَّحَةُ: بھڑیا۔ مصیبت۔ سَبَّحًا
 السَّبَّحَةُ: کالے کپڑے۔ سَبَّحًا
 الْعُشْبُ: گھاس کا سرا ابتدائی روئیدگی کے
 وقت اور کہا جاتا ہے "هُوَ سَبَّحَةُ مِنَ
 السَّبَّحَةِ" وہ چوری میں بڑا ہوشیار ہے۔
 السَّبَّحَةُ: کم بال۔ کہا جاتا ہے "قَالَ سَبَّحَةُ وَلَا
 لَبَّحُ" اس کے پاس نہ تو بال ہیں نہ اُون یعنی
 اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔
 السَّبَّحَةُ: سبز گھاس کا بقیہ۔
 السَّبَّحَةُ: چھتھرا جس سے حوض کی نالی بند کی
 جائے۔ بدبختی۔ سَبَّحًا: ایک قسم کا پرندہ
 جس کے پردھاری دار ہوتے ہیں اور اس کا
 منہ کشادہ اور سرو چوچ چوڑی ہوتی ہے۔
 السَّبَّحَةُ وَالسَّبَّحَةُ: پیڑ۔
 السَّبَّحَةُ: لبنا۔ دلیر۔ چیتا (الف الحاق کے
 لئے ہے تاہم کے لئے نہیں) سَبَّحًا
 وَسَبَّحًا: کھیل کود میں رہنے
 والے لوگ۔

سَبْر (نض) سَبْرًا وَأَسْبَرًا وَاسْتَبْرَ. الْجَرْحُ وَالْبَيْتُ أَوْ الْمَاءُ: گہرائی کی آزمائش کرتا۔ الأَمْرُ: تجربہ کرنا۔ آزمائش کرنا۔ کہا جاتا ہے "هَذِهِ مَفَازَةٌ لِاسْتَبْرٍ" اس بیابان کی وسعت کا اندازہ معلوم نہیں۔ السَّبْرُ: بھس۔ شیر (.....) والیسر (اصل۔ رنگ۔ جمال۔ ہیئت۔ مشابہت۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ حَسَنُ الْجَبْرِ وَالْبَسْرِ" جبکہ اچھی ہیئت والا اور جمیل ہو۔ "وَرَأَيْتَهُ سَبْرًا" الیسر "جبکہ لاغر اور رنگ بدلا ہوا ہو۔ وَقَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ سَبْرُ فُلَانٍ" اس پر فلان کی مشابہت غالب ہے۔ الیسر: دشمنی۔ ج۔ سَبَارٌ۔ السَّبْرَةُ: ٹھنڈی صبح۔ ج۔ سَبْرَاتُ۔ السَّبْرُ وَالسَّبْرَةُ: ایک شکاری پرندہ۔ السَّبْرُ ج۔ سَبْرٌ (المسبر والمسبر) ج۔ سَبَارٍ وَمَسَابِيرٍ: زخم کی گہرائی معلوم کرنے کی سلاخی۔ السَّبَارُ: افریقہ کے جنگلوں کا ایک درندہ جو بچو کے مشابہ ہوتا ہے۔ السَّبْرَةُ: مٹی ذخیرہ اٹھانے کے لئے ٹوکرا۔ السَّبْرَةُ: ایک قسم کا جہاز۔ السَّبْرِيُّ: ساہواری کی جانب منسوب۔ عمدہ گھوڑ۔ باریک بینی ہوئی مضبوط زرہ۔ السَّبْرَةُ: سلیٹ۔ بلیک بورڈ۔ السَّبْرُ: ہیئت حسن وجمال۔ کہا جاتا ہے "حَمِيدٌ سَبْرٌ وَمَخْبِرٌ"۔ السَّبْرُ: زخم کی گہرائی معلوم کرنے والا۔ ج۔ سَبَارٍ۔ مَسْبِرَةٌ: الجرح: زخم کی گہرائی۔ السَّبْرَةُ: آزمائش۔ السَّبْرُ: مفتح۔ اچھی ہیئت والا۔ السَّبْرُ: الزجل: قناعت کرنا۔ السَّبْرُ وَالسَّبْرُوتُ وَالسَّبْرِيَّةُ وَالسَّبْرَاتُ: مسکین و محتاج۔ ج۔ سَبَارِيَّةُ وَسَبَارٍ: السَّبْرُوتُ: تھوڑی چیز۔ امر دلا کا۔ السَّبْرُوتُ مِنَ الْأَرْضِ: چھیل بیابان۔	السَّبْرُوتُ: وہ شخص جس کے بال نہ ہوں۔ السَّبْرَةُ: الماء: پانی بہانا۔ الزجل: نرم و آہستہ چلنا۔ بُرَى گالی دینا۔ السَّبْرُ: الماء: پانی بہنا۔ السَّبْرُ: بیابان۔ دور کی ہموار زمین۔ ج۔ سَبَابِيبٍ اور کہا جاتا ہے "أَرْضٌ سَبَابِيبٌ" اور سَبَابِيبٌ: بیابان۔ دور کی ہموار زمین۔ السَّبْرُ (س) سَبْرًا وَسَبْرًا وَسَبْرًا وَسَبْرًا (ن) سَبْرًا وَسَبْرًا: الشعْرُ: بالوں کا سیدھا ہونا۔ السَّبْرُ (ك) سَبْرًا: المَطْرُ: بہت بارش ہونا اور دور تک ہونا۔ السَّبْرُ: سَبْرًا: بخار ہونا۔ السَّبْرُ: السَّفَاةُ وَالنَّعْجَةُ: اونٹنی یا بھیڑ کا ناقص بچہ گرا دینا۔ صفت (مَسْبُوطٌ)۔ السَّبْرُ: خوف کی وجہ سے چپ رہنا۔ کمزور ہونا۔ گر کر بے حس و حرکت ہونا۔ بِالْأَرْضِ: چھٹنا۔ فِئِي نَوْمِهِ: نیند میں آنکھیں بند کرنا۔ غِنِ الْأَمْرِ: غفلت کرنا۔ السَّبْرُ: اولاد کی اولاد۔ اس کا اطلاق اکثر نواسوں پر ہوتا ہے۔ جیسے حقیقہ کا اطلاق پوتوں پر۔ مِّنَ الْيَهُودِ: یہ لفظ یہودیوں کے لئے ایسے ہی مستعمل ہے جیسے عرب کے لئے قبیلہ کا لفظ۔ ج۔ سَبَابِيبٌ۔ السَّبْرُ وَالسَّبْرُ: مِنَ الشَّعْرِ: سیدھے بال۔ السَّبْرُ مِنَ الْمَطْرِ: بکثرت بارش۔ ج۔ سَبَابِيبٌ: کہا جاتا ہے "هُوَ سَبْبُ السَّبْرُوتِ أَوْ سَبْبُ السَّبْرُوتِ" یعنی وہ فاض و کریم ہے۔ "السَّبْرُ الْجَسْمُ" عمدہ قد و قامت والا۔ السَّبْرُ: تروتازہ لٹی گھاس۔ چینا کی مانند ایک پودہ۔ واحد (السَّبْرَةُ) شَعْرٌ۔ السَّبْرُ: سیدھے بال۔ السَّبْرُ: درخت جس کی ڈالیاں بہت ہوں اور بڑا ایک ہو۔ السَّبْرُ: بروزن قناعت معنی بخار۔ السَّبْرُ: ایک ترکیب میں مطابق ماہ فروری۔ اس کو شاپ بھی کہتے ہیں (اور یہ منصرف اور
غیر منصرف دونوں ہیں۔) السَّبْرَةُ: بال جو کھنی کرنے سے گرے۔ کوزا کرکٹ۔ کوزا خانہ۔ السَّبْرُوتُ: ایک سمندری جانور۔ السَّبْرُوتُ: چھت جو دو مکاتوں کے درمیانی راستہ پر ہو۔ ج۔ سَوَابِيبٌ وَسَابَابِيبَاتُ۔ السَّبْرُوتَةُ: نے۔ جس میں گولی ڈال کر پرندہ کو مارتے ہیں۔ السَّبْرُوتُ: دراز ہو کر لیٹنا۔ السَّبْرُوتُ: تیز چلنا۔ لَهَ الْبِلَادُ: کسی کے لئے ممالک و بلاد کا درست ہونا۔ السَّبْرُوتُ: تیز خاطر و چالاک۔ لَهَا: آسند۔ السَّبْرُوتُ: حملہ کرنے کے وقت دراز ہونے والا۔ کہا جاتا ہے "جَمَالٌ سَبْرُوتٌ" لیٹے ہوئے اونٹ (اس میں تانائیت کی نہیں بلکہ ایسی ہی ہے جیسے "حَمَامَاتُ" اور جِخَالَاتُ: نذر کی جمع میں۔) السَّبْرُوتُ وَالسَّبْرُوتُ: لمبا مرد۔ السَّبْرُوتُ: منگبر اند چال۔ السَّبْرُوتُ (ف ن) سَبْرًا: الْقَوْمُ: ساتواں ہونا۔ مال کا ساتواں حصہ لینا۔ السَّبْرُوتُ: سات لڑی کی رسی بنانا۔ الشَّيْ: سات بنانا۔ السَّبْرُوتُ: غمیت کرنا۔ گالی دینا۔ الشَّيْ: چرانا۔ الذَّنْبُ الْغَنَمُ: بھیڑیے کا بکری کو پھاڑنا۔ السَّبْرُوتُ: الْوَحْشِيَّةُ: درندے کا بچہ کو کھانا جانا۔ صفت (مَسْبُوتَةٌ)۔ السَّبْرُوتُ: سات بنانا یا سات گوشہ کا بنانا۔ الْإِنْسَاءُ: برتن کو سات مرتبہ دھونا۔ السَّبْرُوتُ: لَک: سات مرتبہ یا سات گنا دینا یا سات اولاد دینا۔ السَّبْرُوتُ: عَمْرَأَةٌ: عورت کا ساتویں مہینے بچہ جننا۔ السَّبْرُوتُ: پورے سات سو ہونا۔ السَّبْرُوتُ: سَابِعَةٌ وَسَابِعَةٌ: گالی گلوچ کرنا۔ السَّبْرُوتُ: الْقَوْمُ: سات ہونا۔ السَّبْرُوتُ: چرواہے کے جانوروں میں درندہ کا آپڑنا۔ الشَّيْ: سات بنانا۔ السَّبْرُوتُ: بہت	

درندوں والی ہونا..... ہ: درندے کا گوشت کھانا..... السرجل: گھات پر ساتویں دن جانے والے اونٹوں کا مالک ہونا۔ ایسے اونٹوں کو (سوابع) کہتے ہیں۔
 اسْتَبَحَ الشَّيْءُ: کسی چیز کو چرانا..... الغنم: بکری کو پھاڑنا..... القوم: سات ہونا۔
 السابغ: فا۔ ساتواں۔ ج سَبَعَةٌ و سَابِعُونَ.
 سَبَعَةٌ: سات۔ مؤنث۔ سَبَع.
 السَّبْعُ: سَبَعَةٌ: کامؤنث۔ يَسْبُومُ السَّبْعُ: قیامت کا دن۔ السَّبْعُ المَسْأَلِي: سورۃ فاتحہ یا پہلی سات سورتیں۔ کہا جاتا ہے "طَافَ بِالسَّيِّئِ سَبْعًا" اس نے بیت کا سات مرتبہ طواف کیا۔
 السَّبْعُ والسَّبْعُ والسَّبْعُ: درندہ۔ ج اسْبَعُ و سَبَاعٌ و سُبُوعٌ و سُبُوعَةٌ: مؤنث سَبَعَةٌ و سَبَعَةٌ. السَّبْعُ مِنَ الطَّيْرِ: شکاری پرندہ۔ السَّبْعُ: ساتواں حصہ۔ ج اسْبَاعٌ و حُمَّى السَّبْعِ: ساتویں روز کی باری کا بخار۔ السَّبْعُ: اونٹوں کا ساتویں دن گھات پر آنا۔ السَّبَاعِيُّ: سات گوشے والا۔ سات حروف والالفظ۔ بزاوٹ۔ سَبَاعِيٌّ البَدْنُ: پورے قد و قامت والا۔ حَسُولُودُ سَبَاعِيٌّ: ساتویں مہینے پیدا ہونے والا بچہ۔ السَّبْعُونَ: مِنَ العَدَدِ: ستر (مذکر و مؤنث دونوں کے لئے) السَّبْعِ: ساتواں حصہ۔
 الاسْبُوعُ: ہفتہ۔ ج اسْبَاعِ اَرْضٍ (مُسَبَّعَةٌ): بہت درندوں والی زمین۔
 المُسْبَعُ: ساتویں مہینے پیدا شدہ بچہ۔ وہ بچہ جس کی ماں مرگئی ہو اور کوئی دوسری عورت دودھ پلائے۔ منہ بولا بیٹا۔
 المُسْبُوعُ: درندہ سے خائف۔
 سَبَعٌ (ن) سَبُوعًا. العيش: زندگی کا وسیع و فراخ ہونا..... السوب: کپڑے کا زمین تک لمبا ہونا..... الشئ: پورا ہونا..... إلى و طبعه: مائل ہونا..... المَطْرُ: بارش کا زمین سے

قریب ہونا۔

اسْتَبَحَ. اللّٰهُ عَلَيْهِ الْبِعْمَةُ: نعمت کا کامل کرنا پوری کرنا..... السوب: کپڑے کا لمبا و کشادہ کرنا..... السرجل: پوری زرہ پہننا..... لَسَةُ النّفقة: کسی کے لئے کشادگی سے خرچ کرنا اور تمام ضروریات پوری کرنا۔
 السابغ: فا۔ دِرْعٌ سَابِغَةٌ: پوری زرہ۔ ج سَوَابِغٌ. ذَنْبٌ سَابِغٌ: لمبی دم۔ سَابِغٌ الالائتین: بڑے چوڑوں والا۔
 السبغة: آسوگی۔ وسعت۔
 التَّسْبِيغُ: علم عروض والوں کے نزدیک فاعلان کے آخر میں حرف ساکن زائد کرنا مقطوع و مل: کی قسم میں وہ فاعلان: ہو جاتا ہے۔
 التَّسْبِغُ و التَّسْبِغَةُ: خود کا وہ حصہ جو زرہ کی کڑیوں سے مل کر گردن کو چھپاتا ہے۔ ج تَسْبِغٌ (دونوں لفظ فتح باے بھی ہیں)۔
 سَبَغٌ. اسْتَبَغَلَ القَوْبُ: کپڑے کا پانی سے تر ہونا..... الشغور: بالوں کا تیل سے تر ہونا۔
 المُسْبَغَلُ: فراخ و دراز۔
 سَبَقَهُ (ن ض) سَبَقًا. الى كَذَا: آگے بڑھ جانا..... عُلِيٌّ كَذَا: غالب ہونا۔ سَبَقَ عَلِيٌّ قَوْمَهُ: قوم سے بخشش و کرم میں بڑھ جانا۔ صفت (سابق) ج سَابِقُونَ و سَبِاقٌ. سَبَقَهُ: شرط لینا یا دینا..... الشاة: بکری کا ناتمام بچہ کرنا..... الطيبر: پرندہ کے پیر میں بندھن ڈالنا۔ سَبَقَ البندرة بين الشعراء: دن ہزار کی تھیلی شعراء کے درمیان رکھنا تا کہ جو غالب ہو وہ لے لے۔

الصراط: دونوں آگے بڑھ گئے اور راستہ کو چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ گمراہ ہو گئے۔

السبق: ج اسْبَاقٍ و (السْبِيقَةُ): شرط جو آگے بڑھنے پر رکھی جاتی ہے۔

کہا جاتا ہے هُما سَبِاقان: وہ دونوں ایک دوسرے پر سبقت کرنے والے ہیں۔

السابق: فا۔ گھڑ دوڑ کے میدان کا پہلا گھوڑا۔ اس کو بھلی بھی کہا جاتا ہے بقیہ گھوڑوں کے نام ترتیب وار یہ ہیں۔

المُصَلِّي. المُسَلِّي. التالبي المَرْتاح. العاطف. السخطي. المؤمل. اللطيم.

السكيت: ج سَابِقُونَ و سَبِاقٍ اور کبھی اس کو اسم قرار دے کر سَوَابِقُ: جمع لاتے ہیں۔

جیسے خاتم و نحو الیم۔

السابقة. السابق: کامؤنث۔ اولیت۔ کہا جاتا ہے "لَهُ سَابِيقَةٌ فِي هَذَا الامر" اس کو اس معاملہ میں اولیت حاصل ہے۔ ج سَوَابِقُ و سَابِيقَاتُ. السوابق: گھوڑے۔

السباق: بہت آگے بڑھنے والا۔

السباق: بھس۔ پائے بند۔ بندش۔ سَبِاق الخيل: گھڑ دوڑ۔

السبوق و المُسْبِقُ. مِنَ الخيل: آگے بڑھنے والا گھوڑا۔

سَبِكَ (ن ض) سَبِكًا و سَبِكَ القيصه: گھملا کر سانچے میں ڈھالنا..... الكلام: کلام کو حشو و زوائد سے پاک کر کے عمدہ بنانا۔ سَبِكْتَهُ النجارب: مہذب بنانا۔

انْسَبِكَ. الذهب و نحوه: گھملا۔ ڈھلنا۔

السبيك: گھملا ہوا۔ میل پچھل سے صاف کیا ہوا۔ کہا جاتا ہے "سَبِكُ السبيك"۔

السبيكة: چاندی وغیرہ کا ڈالا جو گھملا کر سانچے میں ڈھال گیا ہو۔ ج سَبَائِكُ.

السبيك: گھملانے اور ڈھالنے کی جگہ۔ ج سَبَائِكُ.

السبكو: دراز ہو کر لیٹنا..... الاستدحله: وقت دراز ہونا۔ اسْبَكْرَتِ البجارية:

وقت دراز ہونا۔ اسْبَكْرَتِ البجارية:

طرف آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ اسْتَبَقَا

پورے قدم والی ہونا۔

سَبَل (ن) سَبَلًا: گالی دینا۔

سَبَل: الصَّال: اللہ کی راہ میں خیرات کرنا

..... السُّبِي: مباح کرنا..... السُّبْر: پردہ

لگانا۔

أَسْبَل: السُّبْر: پردہ لگانا..... الذَّمْع: آنسو

بہانا..... المَاء: پانی گراتا..... الطَّرِيقُ: بہت

آمد و رفت والا ہونا..... السَّمَاء: برسنا.....

الذَّمْع او المَطَر: بکثرت آنسو بہنا یا بکثرت

بارش ہونا..... الزَّرْع: خوشہ لگانا۔

غلی فلان: کسی کے خلاف بہت گفتگو کرنا۔

السَّبَل: بارش جو ابھی زمین تک نہ پہنچی ہو۔

آنکھ کی ایک بیماری جس میں آنکھ پر پردہ ہو

جاتا ہے۔ بچے والی بارش یا خون۔ خوشہ۔

ناک۔ أَسْبَل الذَّمْع او المَطَر کا اسم۔ کہا

جاتا ہے "سَبَلٌ مِّن رَّمَاحٍ" نیزوں کا مجموعہ

خواہ کم ہو یا زیادہ "سَبَلٌ سَبَلٌ" لگانے

ہوئے پڑے۔

السَّبَلَة: موٹھ کے بال۔ اوپر کے لب کے

درمیان کا دائرہ۔ دائی کا اگلا حصہ۔ ج

سَبَال (..... والسُّبُولَة والسُّبُولَة): خوشہ۔

کہا جاتا ہے "مَلَأَ الْاِنْسَاءَ اِلَى سَبَالِهِ" اس

نے برتن کو کنارہ تک بھر

دیا۔ و "جَوَّ سَبَالَهُ" اس نے تکبر سے اپنے

کپڑے کھینچے۔ و "بَعِيْرٌ حَسَنٌ

السَّبَلَة" باریک کھال والا اونٹ۔ و "جَاءَ

وَقَدْ نَشَرَ سَبَالَهُ" وہ دھمکی دیتا ہوا آیا۔

السَّبِيل: راستہ یا واضح راستہ (مذکر و

مؤنث) ج سَبَلٌ وَسَبُلٌ وَأَسْبَلٌ وَأَسْبَلَةٌ

وَسُبُولٌ ابْنُ السَّبِيلِ: مسافر۔ سَبِيلُ اللّٰهِ

: جہاد۔ طلب علم۔ ج۔ امور خیر جن کا اللہ

نے حکم دیا ہو۔ کہا جاتا ہے "لَيْسَ لَكَ

عَلَيَّ سَبِيلٌ" تم کو میرے اوپر مواخذہ کا کوئی

حق نہیں۔ و "لَيْسَ عَلَيَّ فِي كَذَا

سَبِيلٌ" میرے اوپر اس میں کوئی مواخذہ نہیں

اور مولدین کہتے ہیں "مَاعَلَيَّ الْمُحْسِنِ

سَبِيلٌ" محسن پر کوئی معارضہ نہیں۔ و سَبِيلُنَا

أَنْ نَفْعَلَ كَذَا" یعنی ہم اس کام کے لائق

ہیں۔

السَّبِيلَة: راستہ یا واضح راستہ۔

السَّابِلَة: رہ چلتا راستہ۔ کہا جاتا ہے "سَبِيلٌ

سَّابِلَةٌ: راستہ پر گزرنے والے لوگ۔ ج

سَوَابِلِ.

عَيْنٌ (سَبَلَاءٌ) لَبے چکوں والی آنکھ۔ اِمْرَأَةٌ

سَبَلَاءٌ: موٹھوں والی عورت۔

الْاَسْبَلُ وَالْمُسْبِلُ وَالْمُسْبِلُ وَالْمُسْبِلُ

وَالْمُسْبِلُ: لمبی موٹھوں والا۔

المُسْبِلُ: گوہ۔ جوئے کے تیروں میں سے

پانچواں یا چھٹا تیر۔ ماہ ذی الحجہ۔

أَسْبَلَتْ: المَرْأَةُ: ہمیشہ سیاہ تہ بند باندھنا۔

السَّبِيَّةُ: عورتوں کا سیاہ تہ بند۔

السَّبَنُثُ وَالسَّبَنِيَّةُ: عرصہ۔ کہا جاتا ہے

"أَقَمْتُ عِنْدَهُ سَبَنًا" اس کے پاس میں نے

عرصہ تک اقامت کی۔

السَّبَنِيَّةُ: دلیر۔ پیش قدمی کرنے والا۔

چیتا۔ ج سَبَانٌ وَسَبَاتٌ.

السَّبَدِيُّ: دلیر۔ جنگ میں پیش قدمی کرنے

والا۔ ج سَبَانِدٌ.

سَبِهَ سَبِيهَا وَسَبِهَ سَبِيهَا: بڑھاپے کی وجہ

سے عقل زائل ہونا۔ صفت (مُسْبِيٌّ وَهُوَ

وَمُسْبِيَةٌ)

السَّبِيه: بڑھاپے کی وجہ سے زوال عقل۔

رَجُلٌ (سَبِيَةٌ وَسَبِيَةٌ): معرور مرد۔

السَّبَاه: سکتہ۔ زوال عقل۔

رَجُلٌ (سَبَابِيٌّ): بڑھاپے کی وجہ سے عقل

زائل شدہ مرد۔

المُسْبِي: فصیح زبان والا۔

سَبَهَلٌ: کہا جاتا ہے "جَاءَ الرَّجُلُ

سَبَهَلًا" مرد بغیر ہتھیار اور ڈنڈے کے آیا۔

یعنی لاپرواہی سے آیا یا بغیر کسی کام کے آیا۔

و "هُوَ يَمْسِي سَبَهَلًا" وہ بے کار آتا جاتا

ہے۔

سَبِي سَبِيًّا وَسَبَاءٌ: الغَدُو: دشمن کو قید

کرنا..... الرَّجُلُ: دور کرنا۔ جلا وطن کرنا.....

الخَمْسَرُ: شراب کو ایک شہر سے دوسرے شہر

لے جانا..... الخَافِرُ المَاء: پانی تک کھودنا

..... فَلَانًا: کسی کو اپنی محبت میں قید کرنا۔

اِسْتَبَى اِسْتَبَاءً: الغَدُو: دشمن کو قید کرنا.....

قَلْبَ فَلَانٍ: کسی کے دل کو اپنی محبت میں قید

کرنا..... الخَمْسَرُ: شراب ایک شہر سے

دوسرے شہر لے جانا۔

تَسَابَى: القَوْمُ: بعض کا بعض کو قید کرنا۔

تَسَبَى: فَلَانٌ لِفُلَانٍ: کسی کا کسی سے اظہار

محبت کرنا اور اپنی طرف مائل کرانا۔

السَّبِي: بھس۔ قیدی۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ وَآ

بَسْبِي كَبِيْرٌ" عموماً امیر کا لفظ مردوں کے

لئے اور سَبِي: کا اطلاق عورتوں پر ہوتا ہے۔

ج سَبِيٌّ. و سَبِيٌّ العَجِيَّة: سانپ کی کچلی جس

کو چھوڑ دے۔

السَّبِي: قیدی مرد۔ قیدی عورت۔ کہا جاتا

ہے "غَلَامٌ سَبِيٌّ وَجَارِيَةٌ سَبِيٌّ" ج سَبَانِيَا

سَبِيٌّ العَجِيَّة: سانپ کی کچلی جس کو چھوڑ

دے۔

السَّبِيَّة: قیدی عورت۔ ایک شہر سے دوسرے

شہر میں بھیجی ہوئی شراب۔ مولی جس کو غوطہ

خور نکالے۔

السَّبِي والسَّبَاء لکڑی جس کو سیلاب ایک

جگہ سے دوسری جگہ لے جائے۔

ج سَوَابِي: السَّبَابِيَا: جنگلی چوہے کے

سوراخ کی مٹی۔

السَّت: عیب۔ بُرِي كَتَلُو.

السَّبَّة: جھج۔ مَذْرُكٌ لِنِ السَّبَّةِ: جھج کے لئے استعمال ہے اور

مَوْنِثٌ كَالسَّبَّةِ.

السَّبَات: چھٹا۔

السَّبَاتُون: سانپ (مذکر و مؤنث)

السَّبَب: ایک قسم کی تیز چال۔

سَبْر (ن) سَبْرًا وَسَبْرًا وَسَبْرًا: الشُّبِي

کسی چیز کو چھپانا۔ ڈھانکنا۔

سَاتَرَهُ مَسَاتَرَةً: الغَدَاوَة: جھجی دشمنی کرنا۔

تَسَتَّرَ وَاسْتَتَرَ وَاسْتَتَرَ: چھپنا۔ ڈھک جانا۔

کہا جاتا ہے "هُوَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْمَسْءِ

بَسْتَرٌ یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں۔
 البِستَر: پردہ۔ خوف۔ حیا۔ رج سْتُوْر
 وَاَسْتَار: کہا جاتا ہے "مَالَهُ بَيْتَرٌ
 وَلَا جَجْرٌ" یعنی اسے حیا و عقل نہیں۔
 و"هتک اللہ بسترہ" اللہ نے اس کے پردہ
 کو پھاڑ دیا۔ یعنی اس کی برائیاں ظاہر کر
 دیں۔
 البِستَر: بصر۔ ڈھال۔
 البِستَر: پردہ۔ رج ستر: کہا جاتا ہے "مَدَّ
 اللَّيْلُ سِتْرَهُ" رات نے اپنے پردہ کو پھیلا
 دیا۔ یعنی تاریکی پھیل گئی۔
 السُّتْرَةُ: رج سْتُوْر (الْبِسْتَارَةُ) رج سَتَائِرُ:
 پردہ۔ سْتُوْرَةُ السُّطْحِ: چھت پر پردہ کی
 دیوار۔
 السُّبَيْرُ: چھپا ہوا۔ پاکدامن۔ کہا جاتا ہے
 "زَجَلُ سُبَيْرٍ وَامْرَأَةٌ سَبْرَةٌ" رج سْتُرَاءُ:
 مثل قتل و شہداء۔ و شجر سُبَيْرٍ: بہت
 ڈالیوں والا درخت۔
 الْمَسْتُوْرُ: منع۔ پاک دامن۔ رج
 مَسْتُوْرُونَ وَمَسَائِرُ:
 السُّتَارُ: سَائِرُ: کامبالوں اور یہ صفات باری
 تعالیٰ میں سے ہے۔
 الْإِسْتَارُ: مِنْ التَّعَدُّدِ: چار..... فِی الْمَوْزَنِ:
 چار شقال۔ رج اساتر و اسائیر۔
 البِستَر و البِسْتَارَةُ: پردہ۔
 الْمُسْتُوْرُ: منع۔ جَارِيَةٌ مُسْتُوْرَةٌ: پردہ نہیں
 لڑکی۔
 الْمُسْتَعِ وَ الْمُنْتَعِ: چھت و چالاک اور
 بہت کارگر اور مرد۔
 السُّوْقُ وَ السُّوْقُ: کھونا درہم جس پر
 چاندی کا ملح ہو۔
 الْمُسْتَقَّةُ وَ الْمُسْتَقَّةُ: لے آئین کی
 پوسٹین۔ چنگ و غیرہ بجانے کا آلہ۔
 سَتَلَّ (ن) سَتَلًا وَ تَسَاتَلًا وَ انْتَسَلًا
 وَ اسْتَسَلَّ: الْقَوْمُ: پے در پے یکے بعد
 دیگرے نکلتا..... الْمَوْلُوْ: موتیوں کا لگا تار
 بکھرتا..... الدَّمْعُ: آنسو قطرہ قطرہ بہنا۔

صفت (سائل)

سَتَلَهُ (س) سَتَلًا وَ سَاتَلَهُ: بیروی کرنا۔
 السَّتَلُ: مَص - عقاب یا ایک قسم کا پرندہ جو
 عقاب یا گدھ کے مشابہ ہوتا ہے۔ رج سَتَلَانُ
 و سَتَلَانُ:
 السُّتَالَةُ: رومی چیز۔
 الْمُسْتَلُ: تنگ راستہ۔ رج مَسَاتِلُ:
 اَسْتَنَ: الرَّجُلُ فِی السَّنَةِ: قُطْرُ سَالِي مِثْل
 پڑنا۔
 الْاَسْتَنُ وَ الْاَسْتَانُ: بوسیدہ درخت کی
 جڑیں۔
 الْاَسْتَانَةُ: شہر قسطنطنیہ۔
 سَتَّه (ف) سَتَّهًا: الرَّجُلُ: پیچھے لگنا۔ چوتھ پر
 مارتا۔
 السَّهْ وَ الْمِسْهَ وَ السَّهْ: سرین۔ رج اسہہ۔
 الْاَسْهَ وَ السَّهَائِي: بڑی سرین والا۔ رج
 سَهْ وَ سَتَّهَانُ وَ سَتَّهَائِي: مَوْتِ سَتَّهَاءُ:
 سَتَّ (ن) سَتَّوًا: جلدی کرنا۔
 اَسْتَسَى وَ سَتَّسَى: الْقَوْبُ: کپڑا بننے کے لئے
 تانے کو پھیلاتا۔
 السَّتَا: تَانَا: بھلائی۔ کہا جاتا ہے "نَالٌ مِنْهُ
 سَتَّ" اس نے اس سے بھلائی حاصل کی۔
 الْاَسْتِي: تَانَا تَانَا: کپڑا
 سَتَّاهُ: الْقَوْبُ: کپڑے کا تانا۔ کہا جاتا ہے
 "فَا اَنْتَ لِحَمَّةٍ وَ لَا سَتَّاهُ" نہ تو تانا ہے اور
 نہ تانا۔ یعنی نہ تو تو نافع ہے نہ نقصان رساں۔
 سَجَّ (ن) سَجَّجًا: پتلا پتلا پاخانہ کرنا۔
 النَّحَائِطُ: دیوار لپٹنا۔
 السَّجَّةُ وَ السَّجَّجُ: بہت پانی والا دودھ۔
 السُّجُجُ: لپٹی ہوئی پتھیں۔ پاک نفوس۔
 الْمَسْجُجَةُ: بکری کا ایک اوزار جو لپٹائی کے
 کام آتا ہے۔
 السَّجْبُ: پرانی مشک۔ رج سَجْبُ: بقاء
 (ساجب): خشک مشک۔ رج سَوَاجِبُ:
 سَجَّحَتْ (ف) سَجَّحًا: الْحَمَامَةُ: کبوتر کا
 کوکو کرنا..... وَ سَجَّحَ: لَهُ بِكَلَامٍ: تعریض
 کرنا۔ اشارہ کنایہ سے بات کرنا۔

سَجَّحَ (س) سَجَّحًا وَ سَجَّحًا: اعتدال۔
 کے ساتھ طول ہونا۔ کم گوشت والا ہونا
 السَّجْدُ: رخسار کا ملائم ہونا..... خُلِقَہ
 : اخلاق کا نرم ہونا۔ کہا جاتا ہے "فِی عَقْلِهِ
 زَجَّاحَةٌ وَ فِی خُلُقِهِ سَجَّاحَةٌ" اس کی عقل
 میں چنگلی اور اخلاق میں نرمی ہے۔
 اَسْجَحُ: الْوَالِي: معاف کرنا..... الرَّجُلُ
 : نرم اور لطافت آمیز گفتگو کرنا۔ کہا جاتا ہے
 "اِذَا سَأَلْتَ فَاسْجَحْ" یعنی جب تم سوال
 کرو تو نرم الفاظ بولو۔
 اِنْسَجَّحَ: لَهُ بِكَلَامٍ: سخاوت و جواں مردی
 کیا جاتا۔
 السُّجُحُ: نرم آسان۔ کہا جاتا ہے "زَجَلُ
 سُّجُحٍ" نرم اخلاق کا مرد۔ اندازہ۔ کہا
 جاتا ہے "بَيُّوْتُهُمْ عَلَي سُّجُحٍ وَ اَجِدُ" ان
 کے مکانات ایک اندازہ کے ہیں
 (..... وَ السُّجُحُ) راستہ کا درمیانی حصہ۔
 السَّجَّجِجُ: نرم و آسان۔
 السَّجَّحَةُ وَ السَّجَّحِيَّةُ: عادت۔ فطرت۔
 طبعیت۔ السَّيْبُحَةُ: اندازہ..... کہا جاتا ہے
 "زَكَبَ سَجَّحِيَّةٌ زَائِبَةٌ" اس نے ایک
 رائے کو اپنے لئے پسند کیا اور اس پر چل پڑا۔
 الْاَسْجَجِجُ: خوبصورت متناسب اعضاء والا۔
 مَوْتِ سَجَّحَاءُ: ج سَجَّحُ:
 سَجَّاحُ: بروزن نظام۔ نام ایک عورت کا
 جس نے حضرت ابو بکر صدیق کے عہد
 خلافت میں دعویٰ نبوت کیا تھا۔
 الْمَسْجَّاحُ: سامنے۔ کہا جاتا ہے "جَلَسْتُ
 بِسَجَّاحٍ وَ خِيبَهُ" میں اس کے منہ کے سامنے
 بیٹھا۔
 السُّجَّاحُ: فضائے آسمانی۔
 الْمَسْجُوحُ وَ الْمَسْجُوحَةُ: عادت۔
 سَجَدَ (ن) سَجْدًا: فَرَوْتِي سے بھگنا۔
 عبادت کے لئے زمین پر پیشانی کو رکھنا۔
 صفت مذکر (ساجد) رج سَجْدٌ وَ سَجُودٌ
 صفت مؤنث (ساجدة) رج سَاجِدَاتُ
 وَ سَوَاجِدُ:

معتدل ہوا۔ سَجَاجِجٌ وَسَجَاجِجٌ۔
 سَجَعٌ (ف) سَجَعًا. الخَطِيبُ: مٹھی کلام
 بولنا۔ صفت (سَجَاعٌ وَسَجَاعٌ وَسَجَاعَةٌ)
 الحُمَامَةُ: کبوتر کا کوکرنا۔ صفت (سَجَاعَةٌ
 وَسَجُوعٌ). سَجَعٌ وَسُوجِعٌ: جمع.....
 السَّاقَةُ: اونٹنی کا لمبی آواز نکالنا (اور یہ مکان
 کے لئے بھی مستعمل ہے)..... کہا جاتا ہے
 ”سَجَعُ فَلَانٍ ذَلِكَ الْمَسْجِعُ“ فلاں نے
 اس مقصد کا ارادہ کیا۔
 سَجَعٌ. الخَطِيبُ والحُمَامَةُ: بمعنی سَجَعٌ
 (تشدید مبالغہ کے لئے ہے۔)
 السَّاجِعُ: فَاغْتَبَوْا رِقْمًا وَغَيْرَهُ فِي دَرْمِيَانِي
 چال چلنے والا۔ وَجَعٌ سَاجِعٌ: اچھی خلقت کا
 معتدل چہرہ۔ نَاقَةُ سَاجِعَةٍ: طرب و نشاط
 کے ساتھ آواز نکالنے والی اونٹنی۔
 السَّجْعُ: مٹھی کلام۔ سَجَاجِعٌ
 السَّجْعَةُ وَالسَّجُوعَةُ: قافیہ دار کلام کا ایک
 نکتہ۔ سَجَاجِعٌ.
 السَّجْعُ: مقصد۔
 سَجِفٌ (ن) سَجِفًا وَسَجِفٌ. الْبَيْتُ:
 مکان کا پردہ لگانا۔
 سَجِفٌ (س) سَجِفًا: پتلی کروا لانا۔
 السَّجِفُ. الْبَيْتُ: پردہ لگانا۔ الْبَيْتُ: مکان
 کا پردہ لگانا..... اللَّيْلُ: تاریکی بڑھنا۔
 السَّجِفُ وَالسَّجِفُ: سَجُوفٌ
 وَأَسْجَافٌ وَ(السَّجَافُ وَالسَّجِيفُ)
 دروازے کے دو پردے جن کے بیچ میں کھلا
 ہوا ہو۔ پردہ۔ السَّجَافُ: گوٹ۔ سَجَافٌ۔
 کہا جاتا ہے ”أَرْحَى اللَّيْلُ سَجُوفَهُ“ رات
 نے پردے ڈال لئے۔ یعنی تاریکی پھیل گئی۔
 السَّجِفَةُ: رات کا ایک حصہ۔
 السَّجَافَةُ: پردہ حجاب۔
 السَّجَلُ (ن) سَجَلًا: بہ اوپر سے پھینکنا۔
 السَّمَاءُ: پانی گرانا..... الْكِتَابُ: لگا تار
 پڑھنا۔
 السَّجَلُ بِالسَّيْ: اوپر سے پھینکنا۔ السَّجَلُ
 الرَّجُلُ: عہد نامہ لکھنا..... الْأَوْزَاقُ: کچھری

السَّاجِرُ: فَا۔ سیلاب جو ہر چیز کو بھردے۔ وہ
 جگہ جس کو سیلاب آ کر بھردے۔
 السَّاجُورُ: لکڑی جو کتے کے گلے میں لٹکانی
 جاتی ہے۔ سَجُورٌ اور اسی سے ہے
 ”سُوجِرَ الْكَلْبُ“ یعنی اس نے کتے کے
 گلے میں لکڑی لٹکانی اور کہا جاتا ہے ”فَسِيَ
 أَعْنَاقِهِمْ سُوجُورٌ“ ان کے گلوں میں طوق
 ہیں۔
 الْمَسْجُورُ وَالسَّجُورُ: تئور میں جموں کتنے کی
 لکڑی وغیرہ۔
 السَّجِيرُ: مجلس دوست۔ سَجْرَاءُ.
 الْأَسْجَرُ: آنکھوں میں سرخی والا۔ مَوْنُثُ
 سَجْرَاءُ: خالص کچھڑ والا تالاب۔ شیر۔
 ضَعْرٌ (مَسْجَرٌ وَمَسْجَرٌ): لکھے ہوئے
 پال۔
 الْمَسْجَرُ: وہ دریا وغیرہ جس کا پانی کم ہو گیا
 ہو۔
 الْمَسْجُورُ: بفع۔ ساکن اور بھرا ہوا۔ خالی
 (ضد) زیادہ پانی ملا ہوا دودھ۔ اللَّوْءُ الْمَسْجُورُ
 : پروئے ہوئے موتی۔ لڑی سے نکھرے
 ہوئے موتی۔ لَوْوَةٌ مَسْجُورَةٌ: بہت آبدار
 موتی۔
 السَّجُورِيُّ: بے وقوف۔
 سَجَسٌ (س) سَجَسًا. الْمَاءُ: گدلا اور
 متغیر ہونا۔ صفت (سَجَسٌ وَسَجَسٌ
 وَسَجِسٌ)
 سَجَسٌ. الْمَنْهَلُ: چشمہ کا بدبودار و خراب
 ہونا۔
 السَّجَسُ: مضم۔ فساد۔ گدلا پن۔ کہا جاتا
 ہے ”لَا آتِيكَ سَجِسٌ السَّيَالِي“ میں
 تیرے پاس کبھی نہیں آؤں گا۔
 السَّجْسَجُ: زمیں جو نہ سخت ہو نہ نرم۔ پو
 پھٹنے اور آفتاب نکلنے کے درمیان کا وقت۔
 کہا جاتا ہے ”يَوْمٌ سَجْسَجٌ“ دن کہ جس
 میں نہ تو تکلیف وہ گرمی ہو اور نہ سخت سردی
 ہو۔ ”هَوَاءٌ سَجْسَجٌ“ گرم اور سرد کے
 درمیان معتدل فضا۔ ”رِيحٌ سَجْسَجٌ“ نرم و

کہا جاتا ہے ”هُوَ سَاجِدُ الْمَنْجُو“ وہ پست
 و ذلیل ہے۔ ”غَيْبٌ سَاجِدَةٌ“ بھگی ہوئی
 آنکھ۔ ”نَخْلَةٌ سَاجِدَةٌ“ جھکا ہوا کھجور کا
 درخت۔
 سَجَدْتُ (س) سَجَدًا. رَجُلُهُ: پیر کا
 پھولنا۔
 السَّجْدُ: سر جھکانا۔ غَيْبُهُ: نگاہ پست کرنا۔
 الْأَسْجُدُ: چھولے ہوئے پاؤں والا۔
 السَّجَادُ: بہت سجدہ کرنے والا۔
 السَّجْدَةُ. سَجَدٌ: کا ام۔
 السَّجَادَةُ وَالْمَسْجِدَةُ: جائے نماز۔
 الْمَسْجِدُ وَالْمَسْجِدَةُ: سجدہ گاہ۔ عبادت
 گاہ۔ سَجَدٌ مَسْجِدٌ. الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ: بیت
 اللہ شریف۔ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى: مسجد بیت
 المقدس۔ الْمَسْجِدَانِ: مکہ و مدینہ کی
 مسجدیں۔
 الْمَسْجِدُ: آدمی کی پیشانی۔ سَجَدٌ مَسْجِدٌ.
 سَجَرٌ (ن) سَجْرًا. السَّنُورُ: تئور میں
 ایندھن ڈال کر گرم کرنا..... الْمَاءُ النَّهْرُ:
 پانی کا دریا کو بھرنانا..... الْبَحْرُ: سمندر کا جوش
 میں آنا..... الْمَاءُ فِي حَلْقِهِ: پانی نیکنا.....
 الْكَلْبُ: گلے میں لکڑی باندھنا..... الشَّيْ:
 بھیجنانا..... سَجْرًا وَسَجُورًا: النَّاقَةُ: لمبی
 آواز نکالنا۔
 سَجِرٌ. الْمَاءُ: پانی جاری کرنا..... السَّنُورُ:
 تئور میں ایندھن ڈال کر گرم کرنا..... النَّاقَةُ:
 اونٹنی کا لمبی آواز نکالنا۔
 سَجِرٌ. الْبَحْرُ: سمندر کا چڑھنا۔ بلند موجوں
 والا ہونا۔
 سَاجِرَةٌ: مجلس دوست بننا۔
 السَّجْرُ. الْإِنَاءُ: برتن کا بھر جانا..... الْإِبْلُ
 فِي سَيْرِهَا: اونٹوں کا لگا تار چلنا۔
 السَّجْرُ: مضم۔ بادل کی گرج۔ بِسْرٌ
 سَجْرٌ: بھرا ہوا کنواں۔
 السَّجْرَةُ: پانی جو دریا کو بھردے۔ سَجْرٌ
 (وَالسَّجْرُ) فِي الْغَيْبِ: سرخی ملی ہوئی
 سپیدی۔

اور کھمبوں میں اور ارق کو تخریر میں لانا۔

القاضی عَلَيْهِ فیصلہ کرنا..... عَلَيْهِ
بگذرا: مشہور کرنا..... لَهُ بِمَالِهِ: ثابت کرنا۔

سَاجِلَةٌ مُسَاجِلَةٌ وَسِجَالًا: مقابلہ کرنا۔ دوڑ
یا شہر گوئی میں مقابلہ کرنا۔

أَسْجَلٌ: بہت خیر والا ہونا..... بہت
دینا۔ الحَوْضُ: بھرتا۔ السَّكَّامُ: کلام کو بلا
کسی قید کے بولنا۔ النَّاسُ: چھوڑنا۔

لَهُمْ الْأَمْرُ: لوگوں کے لئے کسی معاملہ کو مباح
کردینا اور اسی سے ہے "هَذَا مُسَجَّلٌ لَّهُ
إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ" یہ اس کے
لئے مباح ہے چاہے لے لے جائے چھوڑ
دے۔ "أَسْجَلُ الْأَنْعَامِ فِي الزَّرْعِ" نکیت
میں جانوروں کو آزادانہ چھوڑنا۔

تَسَاجِلًا: باہم مقابلہ کرنا۔

إِنْسَجَلٌ: اوپر سے گرنا۔ کہا جاتا ہے "سَجَلُ
الْمَاءِ فَأَنْسَجَلُ" اس نے پانی گرایا پس وہ
گرا۔

النَّسْجَلُ: مہس۔ بڑا ڈول جس میں پانی ہو۔

ذُولُ بَحْرٍ: عطیہ۔ سخی مرد۔ بڑا تھن۔ س ج

بِسْجَالٍ وَسُجُولٍ اور کہا جاتا ہے "الْحَرْبُ
بَيْنَهُمْ سِجَالٌ" یعنی لڑائی میں غلبہ بھی ایک کو
ہوتا ہے کبھی دوسرے کو۔ النَّسْجَلُ: حصہ۔ کہا
جاتا ہے "أَعْطَاهُ سِجْلَهُ مِنْ كَذَا" اس نے
اس کو اس کا حصہ فلاں چیز سے دیا۔

السَّجَلُ: معاہدات کا رجسٹر۔ احکام کا
رجسٹر۔ قاضی کا رجسٹر جس میں دعوے اور
احکام وغیرہ لکھے جاتے ہیں تاکہ قاضی کے
پاس محفوظ رہے۔ س ج سَجَلَاتُ.

السَّجِيلُ: کنکر۔

عَيْنٌ (سُجُولٌ): بہت آنسو بہانے والی
آنکھ۔

السَّجِيلُ: حصہ۔ کہا جاتا ہے "أَعْطَاهُ
سِجْلَهُ مِنْ كَذَا" اس نے اس کو اس کا حصہ
فلاں چیز سے دیا۔ شَيْءٌ سَجِيلٌ: بہت سخت

چیز۔ ضَرْعٌ سَجِيلٌ: لٹکا ہوا بڑا تھن۔ ذَلْوٌ
سَجِيلٌ وَسَجِيلَةٌ: بڑا ڈول۔ (نَاقَةٌ

سَجَلَاءٌ): بڑے تھنوں والی اونٹنی۔

السُّوْجَلَةُ وَالسُّوْجَلُ وَالسَّوْجُولُ: شیشی کا
غلاف۔ س ج سَوَاجِيلُ.

السُّنْجَلُ: مفتح۔ ہر ایک کے لئے جائز۔ کہا
جاتا ہے "فَعَلْنَا لَهُ وَاللَّهُمُّ مُسْجَلٌ" ہم
لوگوں نے اس کام کو ایسے وقت میں کیا کہ
کوئی کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔

السَّجَلَاطُ: چینیلی۔

سَجَمٌ (ن) سَجُومًا وَسِجَامًا. الذَّمْعُ:
آنسو بہنا۔ صفت (سَاجِمٌ)

سَجَمٌ (ن ض) سَجَمًا وَسُجُومًا عَنِ
الْأَمْرِ: دیر کرنا۔ (ض ن) سَجَمًا وَسُجُومًا
وَسَجَمَانًا الْعَيْنُ أَوْ السَّحَابَةُ الْمَاءِ: آنکھ کا
آنسو یا بادل کا پانی بہانا۔

سَجَمٌ تَسْجَامًا وَتَسْجِيمًا وَأَسْجَمٌ. الْمَاءُ
پانی گرا نا۔ أَسْجَمَتِ السَّحَابَةُ: دیر تک
برساتا۔

إِنْسَجَمَ الْمَاءُ: پانی گرنا۔ بہنا..... الْكَلَامُ
کلام کا مرتب ہونا۔

تَسَاجِمَتِ. الذَّمْعُ: آنسو بہنا۔ گرا نا۔

أَسْجَمَ: پانی۔ آنسو۔

عَيْنٌ (سُجُومٌ): آنسو بہانے والی آنکھ۔ س ج
سُجُومٌ. نَاقَةٌ (سُجُومٌ وَمَسْجَامٌ): بہت
دودھ والی اونٹنی۔ س ج سُجُومٌ وَمَسَاجِمٌ.

مَكَانٌ (مَسْجُومٌ): بارش شدہ جگہ۔

سَجْنَةٌ (ن) سَجْنًا: قید کرنا۔ سَجْنُ الْهَمِّ
: غم پوشیدہ کرنا۔

سَجْنٌ. الشَّيْءُ: پھاڑنا۔

السَّجْنُ: قید خانہ۔ س ج سُجُونٌ.

السَّجْنَانُ: داروغہ جیل۔

السَّجِينُ: قیدی۔ س ج سُجْنَاءٌ وَسَجْنِيٌّ.

مَوْثٌ سَجِينٌ وَسَجِينَةٌ سَجْنِيٌّ

وَسَجَانِيْنٌ. ضَرْبٌ سَجِينٌ: سخت مار جو

مضروب کو زمین پر بٹھادے۔

الْمَسْجُونُ: مفتح۔ قیدی۔

السَّاجِنَةُ: السَّاجِنُ: کا مَوْثٌ۔ پہاڑ میں
پانی بہنے کی جگہ۔ س ج سَوَاجِنُ.

السَّيْجِنُ: ہمیشہ۔ سخت۔ وہ شخص جو ہمیشہ بلا

بیوی کے رہے۔ ایک مقام کا نام جس میں
کفار و فجار کے اعمال تھے ہیں۔ جہنم کی

ایک وادی کا نام۔ بر ملا و اعلانیہ۔ کہا جاتا
ہے "جَسَاءٌ سَيْجِينًا" وہ بر ملا آیا۔ بھجور کے
درخت کے ارد گرد کا گڑھا۔

السَّيْحَنُجَلُ: آئینہ۔ چاندی کا ٹکڑا۔ س ج
سَنَاجِلُ.

سَتَجَانِسُجُو سَجُوعًا وَسُجُوعًا. اللَّيْلُ: رات
کا سناٹا ہونا۔ ہمیشہ رہنا۔ النَّاقَةُ: کسی آواز
نکالنا۔

سَجِيٌّ تَسْجِيَةٌ. الْمَيْتُ: میت کو پکڑے
سے ڈھکنا اور اسی سے ہے "سَجَّ مَعَابِيبُ
أَخِيكَ" اپنے بھائی کے محبوب کو چھپاؤ۔

أَسْجَعْتُ إِسْجَاءً. النَّاقَةُ: اونٹنی کا زیادہ
دودھ والی ہونا۔ أَسْجَعِي السُّجُورُ: سمندر کی
موجوں میں سکون ہونا..... الرَّجْلُ: کسی چیز کو
چھپانا۔

سَاجِدَةٌ: کسی کام کو ہمیشہ کرنا۔ کہا جاتا ہے

"إِنَّا نَا بِالطَّعَامِ فَمَا سَاجِدَانَهُ" وہ ہمارے
پاس کھانا لایا ہم نے اس کو نہیں چھوا۔

السَّاجِي: فا۔ ساکن۔ قرار یافتہ۔ نرم۔ کہا
جاتا ہے "عَيْنٌ سَاجِيَةٌ" بھگی ہوئی آنکھ۔
"وَأَيْلَةُ سَاجِيَةٌ" سناٹا رات۔ بہت
تاریک رات جو ہر چیز کو ڈھاک لے۔

إِمْرَأَةٌ (سُجُوعًا) الطَّرْفُ: جھگی ہوئی نگاہ
والی عورت۔ نَاقَةٌ سَجُوعًا: دوہنے کے وقت
خاموش رہنے والی اونٹنی۔ رِيحٌ سَجُوعًا: نرم
ہوا۔

السَّجِيَّةُ: طبیعت۔ عادت۔ س ج سَجِيَّاتٌ
وسجایا۔

سَجَّ (ن) سَجًا: بہت موٹا ہونا۔

الْمَاءُ: پانی کو لگا کر بہت گرانا اور اسی سے
ہے "إِسْتَشَدَّتْهُ قَصِيْدَةٌ فَسَجَّهَا عَلَيَّ
سَجًا" میں نے اس سے قصیدہ پڑھوایا اس

نے میرے سامنے لگا کر پڑھا..... ہ: مارنا۔
کہا جاتا ہے "سَجَّهُ بِمَاتِهِ سَوَاطُ" اس نے

اس کو سو کوڑے مارے (..... سَخَا و سَخُوخَا و تَسَخَج) بہت بہنا۔
 سَخَتْ (سَخَتْ) سَخُوخَا و سَخُوخَا: الشَّاةُ بہت منوٹی ہونا گویا کہ موٹاپے کی وجہ سے چربی بہاتی ہے۔ صفت (سَخَا و سَخَا) رَج سَخَا و سَخَا ج۔
 اِنْسَخ. اِبْطُ البَيْعِرُ عَرَقًا: اونٹ کی بغل سے پسینہ بہنا۔
 السَّخ و السَّخ: خشک متفرق کھجوریں۔ السَّخَا: نفاء آسانی۔
 سَخَابَةٌ (سَخُوخ): بہت بارش والا بادل۔ غَارَةٌ (سَخَاء): اچانک دشمن پر مصیبت لانے والی لوٹ۔
 عَيْنٌ (سَخَاةٌ): بہت آنسوؤں والی آنکھ۔ فَرَسٌ (سَخ) تیز رفتار عمدہ گھوڑا۔
 سَخِيَةٌ (ف) سَخِيًا: زمین پر گھسیٹنا۔ السَّرْبُلُ: بہت کھانا پینا۔ کہا جاتا ہے "جَمَاءٌ يَسْخُبُ ذَيْلَهُ" وہ منگھیرانہ چال چلتا ہوا آیا۔ تَسَخَبَ عَلَيْهِ: ناز کرنا..... من الاكل او الشرب: بہت کھانا..... پینا..... فی حقی فلان: جھین کر اپنے حق میں ملا لیتا۔
 السَّخَبُ: گھسیٹنا۔ السَّخِيَّةُ: آنکھ کا پردہ (..... و السَّخَابَةُ) تالاب کا باقی ماندہ پانی۔
 السَّخَابُ: بادل۔ رَج سَخَبُ: واحد (سَخَابَةُ) ج سَخَابٍ: کہا جاتا ہے "أَقْمْتُ عِنْدَهُ سَخَابَةَ يَوْمَنَا" میں نے اس کے پاس پورے دن اقامت کی۔
 السَّخْبَلُ: کشادہ واوی۔ بڑا ڈول۔ بڑی مٹک۔ بڑا پیٹ۔ بڑی گوہ۔
 سَخَتْ (ف) سَخَتْ و سَخَتْ: حرام مال کمانا..... ہلاک کرنا۔ جڑ سے اکھیرنا۔ ذَبْح کرنا۔ سَخَتْ السَّخْمَ عَنِ النَّخْمِ: چربی کو گوشت سے علیحدہ کرنا..... وَجْهَ الْأَرْضِ: مٹانا۔
 السَّخْتَةُ: خراب کرنا۔ ہلاک کرنا۔ جڑ سے اکھیرنا۔ السَّخْتَتُ سَخَاتُهُ: تجارت میں

حرام داخل ہونا۔

السَّخْتُ: مال ضائع ہونا۔

السَّخْتُ: مضم۔ بوسیدہ کپڑا۔ عذاب اور کہا جاتا ہے "مَالُهُ أَوْ ذَمُّهُ سَخَتْ" اس کا مال یا خون اس شخص کے لئے جو ان کو معدوم کرے مباح ہے۔

السَّخْتُ و السَّخْتُ: حرام۔ ہر وہ کمائی جو غیثت و قبیح ہو اور اس سے عار لازم آئے۔ جیسے رشوت وغیرہ۔ رَج السَّخَاتِ.

سَخَتْ و سَخَتْ و سَخَتْ و سَخَتْ و سَخَتْ و سَخَتْ: تلف شدہ مال۔ ہلاک شدہ مال۔ رَجُلٌ سَخَتْ و سَخَيْتُ: بڑا پیٹو۔ آسودہ ہونے والا۔ عَامٌ (السَّخَتْ) و أَرْضٌ (سَخَاء): بے نباتات والا سال یا زمین۔

السَّخْوَاتُ و السَّخِيَّتُ: کم روغن اور زیادہ پانی والا ستو۔ تھوڑی چیز۔ السَّخْوَاتُ و السَّخِيَّتُ: پرانا کپڑا۔ السَّخِيَّةُ: سب کچھ بہا لے جانے والا بادل۔

ج سَخَائِتُ

مَسْخُوْبٌ. الْجَوْفُ و المِعْدَةُ: آسودہ نہ ہونے والا۔ زیادہ بدبھمی ہونے والا۔ (خُد)

سَخَجَةٌ (ف) سَخَجًا و سَخَجَةً: چھیلنا..... الشَّيْءُ بِالسَّخِيَّةِ: کسی چیز کو کسی چیز سے رگڑ کر چھیلنا۔ صفت مفعولی (مَسْخُوْجٌ و سَخِيْجٌ) سَخِيْجَتُ الدَّابَّةِ: جو پایہ کا جلدی چلانا۔ تَسَخَجٌ و اِنْسَخَجٌ: چھیلنا۔

السَّخَجُ: بہت چھلنے والا۔ کہا جاتا ہے "زَمَنٌ سَخَجٌ" بہت سخت زمانہ جو ہر چیز کو چھیل کر رکھ دے۔

السَّخُوْجُ و المِسْحَاخُ: بہت قسم کھانے والی عورت۔

المِسْحَجُ و المِسْحَاخُ: مِنَ الذُّوَابِ: تیز چلنے والا جانور۔ دانوں سے بہت کاٹنے والا۔

المِسْحَاخُ: بگڑی کاٹنے کا اوزار۔ زمن مِسْحَاخُ: بہت سخت زمانہ جو ہر چیز کو چھیل دے۔

سَخْرَةٌ (ف) سَخْرًا: دھوکا دینا۔ جادو کرنا فریفتہ کرنا..... عَنِ كَذًا: پھیرنا۔ دور کرنا۔

سَحْرٌ عَنِ الْأَمْرِ: کسی معاملہ سے دور ہونا..... و سَحْرُ الْفِضَّةِ: چاندی پر سونے کا جھول چڑھانا۔

سَخْرَةٌ (ف) سَخْرًا: پھیرنے پر بارنا۔ صفت مفعولی (مَسْحُورٌ و سَخِيْرٌ)..... المَطْرُ الطَّيْنُ: خراب کرنا۔

سَخْرٌ (م) سَخْرًا: صبح سویرے آنا۔ ڈول وغیرہ کھینچنے سے پھیرنے کا کٹ جانا۔ صفت (سَجْرٌ و سَخِيْرٌ)

سَخْرَةٌ: جادو کرنا۔ سحری دینا یا کھلانا۔ غذا دینا۔ مشغول کرنا۔

أَسْحَرُ: صبح کے وقت جانا۔

تَسْحَرُ: سحری کھانا۔

اِنْسَحَرَ: صبح کے وقت میں داخل ہونا یا صبح کے وقت نکلنا۔ السَّدِيْكُ: مرغ کا صبح کے وقت بانگ دینا۔

السَّخْرُ: بمص۔ وہ چیز جس کا ماخذ لطیف و دقیق ہو۔ باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا۔ جادو۔ دھوکا۔ حیلہ۔ فساد۔ ہر وہ چیز جس کے حاصل کرنے میں شیطانی تقرب کی ضرورت ہو۔ رَج السَّخَارُ و سَخُورٌ. السَّخْرُ: الکلامی: کلام کی لطافت جو جادو کا کام کرے اور خیالات کو پلٹ دے اور اسی سے ہے "إِنَّ مِنَ الْبَيِّنَاتِ لَسُخْرًا".

السَّخْرُ: صبح سے کچھ پہلے۔ السَّخْرُ الْأَعْلَى: صبح کاذب۔ و السَّخْرُ الْأَخْرُ: صبح صادق۔

السَّخْرُ: ہر چیز کا کنارہ۔ رَج السَّخَارِ.

السَّخْرُ و السَّخْرُ و السَّخْرُ: پھیرنا۔ رَج السَّخُورِ و السَّخْرُ و السَّخَارُ اور کہا جاتا ہے "أَنْقَطَعَ مِنْهُ سَخْرِي" میں اس سے ناامید ہو گیا۔ "وَأَنْفَخَ سَخْرَهُ" وہ بزدل ہو گیا۔

گویا خوف کی وجہ سے اس کا پیچھرا پھول

گیا۔ "ثَاتِ فُلَانٍ يَبِينُ سَحْرِي وَنَحْرِي" فلاں کا انتقال میرے سینے سے نیک لگائے ہوئے ہوا۔

السَّحْرِيُّ وَالسَّحْرِيَّةُ: صبح سے کچھ پہلے۔ السَّحْرَةُ: صبح کا زب۔

السَّخَاةُ: پیچھرا۔ مِنَ الشَّاةِ: بکری کے پیچھراے اور زرخہ کا وہ حصہ جس کو قصاب کاٹ لیتا ہے۔

السَّحْوُورُ: سحری۔ وہ کھانا جو صبح سے کچھ پہلے کھایا جائے۔

السَّجِيْرُ: پیٹ کی بیماری والا..... مِنَ الْعَيْلِ: بڑے پیٹ والا گھوڑا۔

السَّحَارُ: جادو گر۔

السَّاجِرُ: نا۔ عالم۔ سَحْرَةُ وَسَحَارٌ وَسَحَارٌ وَسَاجِرُونَ: مَوْنُثُ السَّاجِرَةِ: سَاجِرَاتٌ وَسَاجِرٌ۔

السَّوْحَرُ: بید کا درخت۔

السَّحْرُ: وہ شخص جس کا پیچھرا دور کر دیا گیا ہو۔ خوف دلایا ہوا۔ جادو کیا ہوا۔ کھوکھلا۔

السَّحْوَرَةُ: مفع۔ خراب کیا ہوا کھانا۔ کثرت بارش یا کسی اور وجہ سے خراب جگہ۔

عَنْزُ السَّحْوَرَةِ: کم دودھ والی بھیڑ۔ اَرْضُ السَّحْوَرَةِ: بجز زمین۔

تَسْحِجُ: پانی کا اوپر سے بہنا۔

السَّخِجُ وَالسَّخِجَةُ: گھر کا مٹن (السَّخِجُ وَالسَّخِجَةُ) مِنَ الْمَطَرِ: بہت سخت بارش جو زمین کے ٹکڑے پتھر وغیرہ کو بہالے جائے۔

سَحَطٌ (ف) سَحَطٌ وَمَسْحَطٌ: جلدی ذبح کرنا..... هَ الطَّعَامُ: چند لگانا.....

سَحَطُ الشَّرَابِ: پانی ملانا..... السَّحْلُ: بکری کے بچہ کو ماں کے ساتھ چھوڑنا۔

إِنْسَحَطَ: من بیدہ: ہاتھ سے پھسل کر گرنا..... عَنِ النَّخْلَةِ وَنَحْوَهَا: لٹکانا اور بغیر ہاتھ سے پکڑے ہوئے اترنا۔

الْمَسْحُطُ: حلق۔

شَاةٌ (سَجِيْطٌ وَسَحْوُطَةٌ): ذبح کی ہوئی بکری۔

سَحْفٌ (ف) سَحْفًا: الشَّعْرُ عَنِ الْجِلْدِ: بال کو کھال سے زائل کرنا..... الرِّاسُ: سر موٹنا..... وَأَسْحَفْتُ الرِّيحَ السَّحَابَ:

ہوا کا بادلوں کو اڑا دینا۔ وَأَسْحَفَ السَّحْبَةَ: پیٹھ کی چربی کو پھینا۔ السَّحْفَةُ: پیٹھ کے اوپر کی چربی۔ رَجَّ سَحَافٌ وَسَحْفٌ:

السَّحَافُ: سل کی بیماری۔ السَّجِيْفُ: بچگی کی آواز پینے کے وقت۔ دودھ دھننے کی آواز۔

السَّجِيْفَةُ: سخت بارش جو ہر چیز کو بہالے جائے۔ چربی جو پھیل کر جدا کی جائے۔ رَجَّ سَحَائِفٌ:

السَّحْوُوفُ: سخت بارش جو ہر چیز کو بہالے جائے "نَاقَةُ السَّحْوُوفِ" بے چربی والی اونٹنی۔ اونٹنی جس کے تھن لیے ہوں اور تھن کے سوراخ تنگ ہوں۔ جَمَلٌ أَوْ نَاقَةٌ سَحْوُوفٌ: زیادہ چربی والا اونٹ یا اونٹنی۔

مَسْحَفٌ: الخِيَّةُ: زمین پر سانپ کے چلنے کے نشانات۔

السَّحْفَةُ: گوشت چھیلنے اور چمڑا کھر پنے کا آلہ۔

رَجَّلُ (مَسْحُوفٌ): سل کی بیماری والا۔ اَرْضٌ (مَسْحَفَةٌ): باریک گھاس والی زمین۔

سَحْفَةٌ (ف) سَحْفًا: بہت زیادہ کوٹنا۔ باریک کرنا۔ ہلاک کرنا..... الرِّيحُ الارضُ:

ہوا کا تیز چلنے کی وجہ سے صاف کر دینا..... الرِّاسُ: سر موٹنا..... الشَّيْءُ الشَّدِيدُ:

نرم کرنا..... القَمَلَةُ: جوں کو مار ڈالنا..... السَّوْبُ: کپڑے کا پرانا بوسیدہ کرنا..... العَيْنُ وَمَعَهَا: آنکھ کا آنسو بہانا۔ کہا جاتا ہے "سَحَقَهُ اللهُ" اللہ نے اس کو دور کر دیا۔

سَحَقَ (س) وَسَحَقَ (ك) سَحَقًا: دور ہونا۔

سَحَقَ (ك) سَحْوَقَةً: الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ پرانا ہونا..... النَّخْلَةُ: درخت خرما کا طویل ہونا۔ صَفَتُ (سَحْوُوقٌ) ج سَحَقٌ:

سَحَقٌ: بہت بار یک پیٹنا۔ اسْحَقَهُ: دور کرنا۔ ہلاک کرنا..... الثوبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ باوجود نئے ہونے کے رواں گر جانا..... خُفُّ السَّعِيْرِ: ٹھس جانا۔ الضَّرْعُ: دودھ خشک ہو جانا اور تھن کا پیٹ سے لگ جانا۔

إِنْسَحَقَ: باریک ہونا..... القلبُ: دل کا شکستہ ہونا..... الشَّيْءُ: کشادہ ہونا دور ہونا..... الثوبُ: باوجود نئے ہونے کے رواں گر جانا۔

الدَّلْوُ: ڈول کا خالی ہو جانا۔ السَّحَقُ: مصل۔ بوسیدہ کپڑا۔ کہا جاتا ہے "ثوبٌ سَحَقٌ وَسَحَقٌ ثوبٌ" باعتبار وصف یا اضافت کے۔ نیز کہا جاتا ہے "سَحَقٌ ذَرْمٌ" کھوٹا ذرہم سَحْوُوقٌ:

السَّحَقُ وَالسَّحَقُ: دوری۔ کہا جاتا ہے "سَحَقَالَهُ" یعنی اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے۔ السَّحِيْقُ: دور۔ مَسْكٌ سَحِيْقٌ: باریک پس ہوئی مشک۔ السَّوْحِقُ: لبیا یا لبہامرد۔ السَّحَاقَةُ: بہت پینے والا۔ امْرَأَةٌ سَحَاقَةٌ: عورت جس کی پستانیں بہت لمبی ہوں اور نلک آئی ہوں۔

السَّجِيْقَةُ: سحیق کا مؤنث۔ زور کی بارش جو ہر چیز کو بہالے جائے۔ رَجَّ سَحَاقٌ:

ومع (مسحوق) سحیہ ہوئے آنسو۔ رَجَّ مَسْحِاقٌ (نادر) کہا جاتا ہے "جَرَتْ مِنْ عَيْنِهِ مَسْحِاقِي الدَّمُوعِ" اس کی آنکھ سے آنسوؤں کی قطاریں بہ پڑیں۔

الاسْحَاقُ: دور۔

المِسْحَق: جس سے پسا جائے۔	مَسَاحِن: خسیں آدمی۔ سخاوت و فیاضی۔ گدھے کا بچہ۔ گورخر۔ ماہر قرآن۔ روٹی کا پاکیزہ کپڑا۔ نج مساجل۔
سَحْل (ف) سَحْلًا: الشئی: چھیلنا۔ پینا۔ کوٹنا..... الرجل: گالی دینا۔ ملامت کرنا۔	السَّحَال والسَّجِيل: بہنہا بہت۔
..... الغریم ماہہ درہم: قرض خواہ کو نقد ادا کرنا۔	شاب (مُسْحَلَانٌ وَمُسْحَلَاتِي: لمبا یا سیدھے بالوں والا جوان۔ مؤنث
..... ملة سوط: مارنا..... الشوب: کچے دھاگے سے بنا۔ الخبل: رسی کو اکہرا بنا۔	مُسْحَلَانَةٌ وَمُسْحَلَاتِيَّة) السَّحُول: بفتح۔ چھوٹا۔ حقیر۔ ہموار کشادہ جگہ۔
سَحَلَّتْ سَحْلًا وَسَحُولًا: العين: رون۔	السَّحُولَات: جلی انگوریاں جو کہ اپنی ترکیب میں بے مثل ہیں ان کے پھول مرغوب ہوتے ہیں۔ ان کا عرق نموڑ کا پیا جاتا ہے۔
سَحْل (ض) سَحِيلًا وَسَحَالًا: البغل: نچر کا بہنہانا۔	السَّحَالُ: بڑے پیٹ والا۔
سَاخَلَهُ: ایک دوسرے کو گالی دینا۔ ایک دوسرے کو ملامت کرنا۔ سَاخَلَ الْقَوْمَ بِأَوْلَادِهِمْ: سائل پر لانا۔	السَّحْلَانُ: بڑے پیٹ والا۔
سَاخَلَهُ: گالی خوردہ پانا۔	سَحْمٌ (س) وَسَحْمٌ (ك) سَحْمًا: کالا ہونا۔ صفت (أَسْحَمٌ) مؤنث سَحْمَاءُ: نج سحْم۔
إِسْحَال: چھیلنا۔ پینا۔ باریک ہونا۔	سَحْمٌ: وَجْهَةٌ: چہرہ کالا کرنا۔
بِالسَّحَالِ: گفتگو جاری کرنا۔ اِسْحَلَتْ الذرأهم: چمکدار ہونا۔	أَسْحَمَتْ: السَّمَاءُ: برساتا۔
السَّحْلُ: مِص (السَّحْلُ) نج أَسْحَالِ وَسَحُولِ وَسَحْلٍ (وَالسَّجِيلِ) کپڑا جس کا سوت کچا ہو۔ اکہری بیٹی ہوئی رسی۔	السَّحَامُ وَالسَّحَامُ وَالسَّحْمَةُ: سیاہی۔
السَّجَالُ: فَا۔ سمندر کا کنارہ۔ نج سَوَاجِلِ البِخَال: لگام۔	الْأَسْحَمُ: سینگ۔ بادل۔ سر پستان۔ شراب کی مٹک۔ بت۔ خون جس میں قسم کھانے والے اپنے ہاتھ کو ڈبوتے تھے۔
السَّحْلَةُ: چھوٹا خرگوش جو اپنی ماں سے جدا ہو گیا ہو۔	السَّحْمُ: بولہ..... وَالسَّحْمِيُّ وَالْأَسْحَمَانُ): ایک درخت کا نام۔
السَّحَالَةُ: چاندی سونے کا بُرادہ۔ گہبوں جو کی ہجوی۔ ناکارہ لوگ۔	السَّحْمَةُ: لوہے کا کٹڑا۔
إِلْسَاخِل: ایک درخت کا نام جس کی سواکیں بنائی جاتی ہیں۔	السَّحْمُ: لوہار کے ہتھوڑے۔
الْإِسْجَالُ: پانی کی تالیاں۔	سَحْنٌ (ف) سَحْنًا: الخبز: پتھر توڑنا..... الخشبہ: لکڑی کو رگڑ کر نرم و چمکدار بنانا..... الشئی: باریک پینا۔
المِسْحَلُ: سنگ تراشی کا اوزار۔ ریتی۔ زبان۔ لگام۔ بیخ خلیب۔ بہادر۔ چست ساقی۔ جلاد۔ حدود کو قائم کرنے والا۔ پختہ ارادہ۔ اکہری بیٹی ہوئی رسی۔ گراہی۔ کہا جاتا ہے "زُكِبَ فَلَانٌ مِسْحَلَةً" فلاں نے گراہی اختیار کی۔ المِسْحَلُ: شیطان۔ داڑھی کی ایک جانب چھلتی۔ توشہ دان کا منہ۔ بہت پانی والا۔ پر نالہ۔ بہت بارش۔	سَاخَنَهُ: ملاقات کرنا۔ بہتر میل ملاپ سے رہنا۔ سَاخَنَهُ الشئی: کسی چیز میں شرکت کرنا..... وَتَسَحَّنَهُ: کسی کے چہرہ مہرہ رنگ و روغن کو دیکھنا۔
	السَّخْنَةُ وَالسَّخْنَةُ وَالسَّخْنَاءُ وَالسَّخْنَاءُ السَّخْتُ السَّخِيْتُ: سخت۔
	السَّخْتُ: کھر دار جانوروں کے پیٹ سے جو کچھ نکلے قبل اس کے کچھ کھائیں۔

المُسْحُوت: تاہاں۔ چکیلا۔

المِسْحُوت: پلنداٹھا ہوا غبار۔ سفید آٹا۔
سخت۔ کم عملی والا ستو۔

المِسْحِيَانِ وَالْمِسْحِيَانِ: دباغت دی ہوئی
بکری کی کھال۔

السُّخْرَةُ (ف) سَخْرِيًّا وَسَخْرِيًّا وَسَخْرَةً
وَتَسَخْرَةً وَاسْتَسَخْرَهُ: بیگار لینا۔ مغلوب
کرنا۔ ذلیل کرنا۔

السُّخْرَثُ (ف) سَخْرًا. السَّفِينَةُ: کشتی کا
عمدہ رفتار سے چلنا۔ صفت (سَخْرَةٌ) ج
سواخیر۔

السُّخْرُ (س) سَخْرًا وَسَخْرًا وَسَخْرًا
مُسَخَّرًا وَتَسَخَّرَ. وَاسْتَسَخَّرَ. بِهِ
وَمِنْهُ: ٹھٹھا کرنا۔ تم کہتے ہو "أَنَا أَقُولُ هَذَا
وَلَا أَسْخَرُ" میں اس کو کہتا ہوں اور تم ہی نہیں
کہتا ہوں۔ یعنی بالکل سچی بات کہہ رہا
ہوں۔

السُّخْرَةُ: جس سے ٹھٹھا کیا جائے۔ بیگار
بیگاری (.....) والسُّخْرِيَّةُ (ٹھٹھا۔

المُسَخَّرَةُ: وہ جس سے ٹھٹھا کیا جائے۔
(لغت عامہ)

السُّخْطُ (س) سَخَطًا. الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ:
..... غضبناک ہونا..... الشیءُ ناپسند کرنا۔

السُّخْطُ: غضبناک کرنا۔

تَسَخَطُهُ: ناراض ہو کر غضبناک ہونا اور
ناپسند کرنا..... العطاءُ: کم سمجھنا۔

السُّخْطُ وَالسُّخْطُ وَالسُّخْطُ: ناراضی
اور بقول بعض بڑے لوگوں کی ناراضی۔

المُسَخُوطُ: مفتح۔ ناپسندیدہ۔

المَسْخُوطُ وَالْمَسْخُوطَةُ: سبب ناراضی۔ ج
مَسْخُوطٌ.

السُّخْفُ (ک) سُخْفًا وَسَخْفًا: کمزور
عقل والا ہونا۔ سَخْفُ الْعَزْلِ: ہار یک ہونا
..... البسقاءُ: کمزور ہونا۔

السُّخْفَةُ: کم عقل قرار دینا۔
سَخْفَةٌ: بے وقوفی میں مدد دینا۔
السُّخْفَةُ وَالسُّخْفَةُ: لاغری۔ کمزوری۔ کم

عقلی۔ کہا جاتا ہے "هَذَا مِنْ سُخْفِيَّةِ
عَقْلِكَ" یہ تمہاری کم عقلی کی وجہ سے ہے۔

السُّخْفُ: تنگ گزارہ کی زندگی
(..) والسُّخْفُ: کم عقلی۔

السُّخْفِيُّ: کم عقل۔ قُوبٌ سَخِيفٌ: ہار یک
چھر چھرا کپڑا۔ رَجُلٌ سَخِيفٌ: کمزور عقل

والامرء۔ سَخِيفُ الْعَقْلِ: ناقص عقل والا۔
رَأَى سَخِيفٌ: کمزور رائے۔ سَخَابٌ

سَخِيفٌ: پتلا بادل۔
السَّخَافَةُ: صم۔ ہر چیز کی کمزوری۔

أَرْضٌ (مُسَخَفَةٌ): کم گھاس والی زمین۔
سَخَلَهُ (ف) سَخَلًا: صاف کرنا۔ چھانٹ

دینا۔ سَخَلَ الشیءُ: فریب سے لینا۔
سَخَلَهُ: عیب لگانا۔ کمزور کرنا۔

أَسَخَلَ. الْأَمْرُ: پیچھے کرنا۔
السَّخِلُ: کمزور..... مِنْ الْقَوْمِ: رذیل۔ ج

سَخِلٌ وَسَخَالٌ.

السَّخْلَةُ: بکری کا بچہ۔ ج سَخِلٌ وَسَخَالٌ
وَسَخْلَانٌ وَسَخْلَةٌ.

السَّخَالَةُ: بچھوڑن..... سَخْلَكُنْ.

المُسَخُولُ: فرد مایہ۔ ضعیف۔ مجہول اور اسی
سے ہے "سَخَوَا كِبًا مُسَخَوْلَةً" یعنی مجہول

ستارے۔

السُّخْمُ. اللَّحْمُ: گوشت کا بدبودار ہونا.....
المَاءُ: پانی گرم کرنا..... اللَّهُ وَجْهَهُ: سیاہ رو

کرنا..... ه بَصْدْرِهِ: غضبناک کرنا۔
تَسَخَّمَ. عَلَيْهِ: کینہ رکھنا۔ غضبناک ہونا۔

السُّخْمُ: سیاہی۔

السُّخْمَةُ: سیاہی۔ کینہ۔ غضب۔
السُّخَامُ: کونکہ۔ ہانڈی کی سیاہی۔ پرندہ کے

بازوؤں کے نیچے کے نرم پر۔ أَيْسَلٌ
سُخَامٌ: کالی رات (.....) السُّخَامِيُّ

وَالسُّخَامِيَّةُ: خوشگوار شراب۔
الْأَسْخَمُ: کالا۔ مَوْنُتٌ سَخْمَاءُ. ج سَخْمٌ.
السُّخَامِيُّ: کالا۔

السَّخِيمَةُ: کینہ۔ کہا جاتا ہے.. سَلَلْتُ
سَخِيمَتَهُ بِاللُّطْفِ وَالرَّحْمَةِ" میں نے اس

کے کینہ کو لطف و رضامندی سے نکال لیا۔
پانچاٹھ۔ حدیث میں ہے "مَنْ سَلَّ

سَخِيمَتَهُ عَلَى طَرِيقِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ" جس
شخص نے راستہ پر پانچاٹھ کیا اس پر اللہ کی

لعنت ہو۔ ج سَخَائِمٌ.
المُسَخَّمُ: مفتح۔ کینہ دور۔

سَخْنٌ (ن) وَسَخِنٌ (س) وَسَخَنٌ (ك)
سَخُونَةٌ وَسَخَانَةٌ وَسَخْنَا وَسَخْنَا وَسَخْنَةٌ

: گرم ہونا۔
سَخْنَةٌ (ن) سَخْنًا. بِالضَّرْبِ: تکلیف دہ

طور پر مارنا اور اسی سے ہے "مَا أَسَخَنَ
ضَرْبُهُ" اس کی مار کس قدر تکلیف دہ ہے۔

سَخِنَتْ (س) سَخْنَا وَسَخُونًا وَسَخْنَةً
عَيْنُهُ: آنکھ کا تکلیف سے جل اٹھنا۔

أَسَخَنَ وَسَخِنَ. الشیءُ: گرم کرنا۔ کہا جاتا
ہے "أَسَخَنَ عَيْنَهُ وَبَعِيَهُ" یعنی اس نے

اسے رلا دیا۔

السَّخْنُ وَالسَّخْنَةُ وَالسَّخْنَةُ وَالسَّخْنَةُ
وَالسَّخْنَةُ وَالسَّخُونَةُ: گرمی۔ بخار۔ کہا

جاتا ہے "عَلَيْكَ بِالسَّخْنِ عِنْدَ
سَخْنَةٍ" معاملہ کو اس کے ابتداء ہی میں ٹھنڈا

ہونے سے پہلے سنبھال لو۔

السَّخْنُ وَالسَّخْنَانُ وَالسَّخْنَانُ
وَالسَّخْنَانُ: گرم۔

مَاءٌ (سَخِينٌ): گرم پانی۔ ضَرْبٌ
سَخِينٌ: تکلیف دہ مار۔ السَّخِينُ: کدال۔

پیلچہ۔ قصائیوں کی چھری۔ بل کا دستہ۔ ج
سَخَائِحِينَ.

السَّاخِنُ: قا۔ گرم۔ ج سَخَانٌ: مَوْنُتٌ
سَخَانَةٌ: کہا جاتا ہے "لَيْلَةُ سَخَانَةٍ" گرم

رات۔
السَّخَائِحِينَ: گرم۔ کہا جاتا ہے "مَاءٌ

سَخَائِحِينَ" گرم پانی (کلام عرب میں
مقابل کا وزن اس کے علاوہ کوئی نہیں۔)

السَّخِينُ: ہر وہ چیز جو نہ گرم ہونے ٹھنڈی۔
السَّخِينَةُ: ایک قسم کا کھانا جو آٹے سے تیار
کیا جاتا ہے۔ گرم کھانا۔

السِّدَارُ: پردہ کی مانند جو خیمہ کے عرض میں لگایا جاتا ہے۔

السِّدَارُ: بھیر کے پتوں کا بیچنے والا۔

السِّدْيُورُ: تازہ گھاس۔ جیرہ کے اطراف میں ایک دریا کا نام۔ شاہ نعمان کے ایک محل کا نام۔ یمن میں ایک جگہ کا نام جہاں سے یمنی چادریں آتی تھیں۔ السِّدْيُورُ النُّخْلُ: وہ جگہ جہاں درخت خرما بہت سے ہوں۔

الاسْتِدْرَانُ: آنکھ کی دورگیں۔ دونوں موٹے۔ کہا جاتا ہے "جَسَاءٌ يَنْصُرِبُ اسْتِدْرِيوً" وہ بے حصول مقصود خالی ہاتھ آیا۔

سَدَسٌ (ض) سَدَسًا: القَوْمُ: چھٹا ہونا۔

سَدَسٌ (ن) سَدَسًا: القَوْمُ: چھٹا حصہ لینا۔

سَدَسٌ: الشَّيْءُ: چھ پہل بنانا۔

السَّدَسُ: القَوْمُ: چھ ہونا۔ چھ روز گھاٹ پر آنے والے اونٹوں والا ہونا..... البَعِيرُ: آٹھویں سال میں دانت گرانے۔

السِّدْسُ: اونٹ کے لئے چھ روز پانی پینے کی باری۔ ست کی اصل سدس ہے۔

السَّدَسُ والسَّدَسُ: چھٹا حصہ۔ ج سَدَسًا اور کہا جاتا ہے "هُوَ يَنْصُرِبُ اَحْمَاسًا لاسَّدَسًا" وہ کمزور فرب کی کوشش کرتا ہے۔

السَّدَسُ: آٹھویں سال کی عمر کا اونٹ۔

السَّدَاسُ: قا۔ چھٹا۔ مؤنث سَادِسَةٌ۔

السَّدَاسِيَّةُ: چھ سے مرکب۔ چھ حرفوں والا کلمہ جیسے زح تمل۔ کہا جاتا ہے جَسَاءٌ وَا (سَدَاسٌ) وہ لوگ چھ چھ ہو کر آئے اور یہ کلمہ عدل اور وصفیت کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔

السَّدُوسُ وَا السَّدُوسُ: سبز رنگ کی چادر۔

السَّدُوسُ: چراغ کی سیاہی۔

السَّدِيْسُ: چھٹا حصہ۔ ج سَدَسُ: چھ سے مرکب۔ آٹھویں سال کی عمر کا اونٹ۔ چھ سال والی بکری۔

السَّدَسُ: شش پہل۔ وہ سطح جو چھ باہم برابر ظلہوں سے گہری ہو۔

السُّدْسُ: ریو الوالجس میں چھ کارتوس ہوتے ہیں۔

السَّدْعَةُ (ف) السَّدْعَا: ذبح کر کے پھیلاتا..... الشَّيْءُ بالشَّيْءِ: بگراتا۔

السَّدْعُ: رنج و اذیت پہنچایا جاتا۔

السَّدْعَةُ: رنج و اذیت۔

السُّدْعُ: اپنے ارادہ پر چلنے والا۔ ہادی رہتا۔

السَّدْفُ (ض) السَّدْفَا: القَوْمُ: تاریکی میں داخل ہونا..... الحِجَابُ: پردہ لگانا۔ صفت مفعولی (مَسْدُوفٌ)

السَّدْفُ: سونا۔ بھوک یا بڑھاپے کی وجہ سے نگاہ کا وہندلا ہونا..... القَوْمُ: تاریکی میں داخل ہونا..... السَّلِيلُ: تاریک ہونا۔ صفت

(السَّدْفُ) مؤنث سَدَفَاءٌ ج سَدَفٌ.....

السَّدْفُ: روشن ہونا..... السَّرُ: پردہ اٹھانا

..... السَّمْرَةُ القِنَاعُ: برقعہ ڈالنا۔ السَّدْفُ

عَنْ كَذَا: الگ ہونا۔ کہا جاتا ہے "السَّدْفُ

السَّبَابُ" یعنی دروازہ کھول دیا دروازہ سے

بٹ جاؤ تاکہ گھر میں روشنی ہو سکے۔

السَّدْفُ: بگڑے بگڑے کرنا۔

السَّدْفُ: تاریکی۔ روشنی (ضد) بھیرنا۔ ج سَدَفٌ۔

السَّدْفُ: وجود جو دور سے دکھائی دے۔ ج سَدُوفٌ۔

السَّدْفَةُ والسَّدْفَةُ: تاریکی۔ روشنی

(ضد) السَّدْفَةُ: دروازہ۔ دروازے کا کھینچ

جو اس کو بارش سے بچائے۔

السَّدْيْفُ: کوبان کی چربی کا ایک ٹکڑا۔ ج سَدَافٌ۔

السَّدَافُ: سَدَافٌ۔

السَّدَافَةُ: پردہ۔

السَّدَقُ والسَّدُوقُ سَدَقٌ وسَدُوقٌ كِ

تَقِيْفٌ ہے۔

السَّدِكُ (س) السَّدِكَا والسَّدِكَا

بِالْأَمْرِ: لازم ہونا۔ چھٹا۔ صفت (سَدِكٌ)

بِه: کہا جاتا ہے "هُوَ سَدِكٌ بِالرُّمُحِ" بہت تیز مارنے والا ہے۔

السَّدَلُ (ن ض) السَّدَلَا والسَّدَلُ: الشَّعْرُ أَوِ القَبُوبُ: ہال یا کپڑا لگانا۔ السَّدَلُ

القَبُوبُ: کپڑا بچاڑنا..... فِي البِلَادِ: جانا۔

السَّدِيلُ (س) السَّدَلَا: خَلْقَةٌ: جھکاؤ والا

ہونا۔

السَّدَلُ والسَّدَلُ: لگنا۔

السَّدَلُ: الرُّجُلُ: لمبی موٹھوں والا ہونا۔

السَّدَلُ: ہار جو سینے تک لمبی ہو۔

(..... والسَّدَلُ): پردہ۔ ج السَّدَلُ

وَالسَّدَلُ والسَّدَلُ: کہا جاتا ہے "الرُّحَى

السَّلِيلُ السَّدُولُ" رات نے اپنے پردے

لنکائے یعنی تاریکی چھا گئی۔

السَّدَلُ: جھکاؤ۔ میلان۔ کہا جاتا ہے "فِيهِ

السَّدَلُ إِلَى جَنَابٍ" اس کے اندر ایک جانب

میلان ہے۔

السَّدِيلُ: ہودہ پر جو لٹکا یا جائے۔ پاگلی وغیرہ

کا پردہ۔ ج السَّدَلُ والسَّدَلُ والسَّدَلُ

السَّدَلُ: بہت لمبے بال۔

السَّدُولُ: موٹھ۔

السَّدَمُ (ن) السَّدَمَا: الباب: دروازہ بند کرنا۔

بھیرنا۔

السَّدَمُ (س) السَّدَمَا: ندامت کے ساتھ غمگین

ہونا۔ غم کے ساتھ غضبناک ہونا..... بالشَّيْءِ:

بہت خواہش مند ہونا۔ حریف ہونا.....

السَّمَاءُ: پانی کا بہت دنوں کی وجہ سے متغیر ہونا

اور کائی سے ڈھک جانا۔

السَّدَمُ: السَّمَاءُ طُولُ عَهْدِهِ: متغیر کر دینا۔ مَاءٌ

(السَّدَمُ والسَّدَمُ والسَّدَمُ) کائی سے

ڈھکا ہوا یا زیادہ دنوں کی وجہ سے متغیر پانی

جمع کے لئے کہا جاتا ہے۔

مِثَالُ السَّدَمِ والسَّدَمِ والسَّدَمِ: رَجُلٌ

السَّدَمُ: غضبناک مرد۔

السَّدَمُ: ندامت کے ساتھ غم۔ غم کے ساتھ

غصہ۔

السَّدَمَانُ: ندامت کے ساتھ غمگین۔ غم کے

ساتھ غضبناک۔ کہا جاتا ہے "هُوَ سَدَمَانٌ لَدَمَانٌ"۔

السديم: کرہ آسمانی پر مدھم دکھائی دینے والے ستارے۔ السديم: تیز تلواریا اس کی دھار۔

السديم: ج سیدام: بہت یاد کرنے والا۔ ج سدم: کہرایا باریک کہرا۔

سذن (ن ض) سذنا وسذانة: کعبہ یابن مانہ کی خدمت کرنا۔ دربان ہونا۔ صفت

ساذن (ج سذنة: کہا جاتا ہے "هوساذن لبلان واذنه" یعنی فلاں کا دربان ہے۔ سذن البستر: پردہ لگانا۔

السذن والسذن: ج اسذنان. ج اسذنان. وراسذنان: پردہ۔

سذانة: الكعبة: کعبہ کی خدمت۔ السدين: چربی۔ اون۔ خون۔ پردہ۔

السذنان: نہائی (صحیح لفظ سدان ہے) سذائسذ وسذوا. بیدہ نحو الشئ: کسی

چیز کی طرف سے ہاتھ بڑھانا..... الصبي بالجوز: اخروٹ سے کھیلنا۔ سذت الناقة

فی المشئ: کشادہ قدم رکھنا اور کہا جاتا ہے "سذا سذوة" اس نے اس کے جیسا قصد کیا

اور اس کی بیروی کی۔ اسذی اسذاء. النخل: غلاف خرما کا ڈھیلا

پڑنا۔ اسذی اسذاء. بیدہ: ہاتھ بڑھانا.....

الصبي بالجوز: اخروٹ سے کھیلنا..... الفرس: پیسن والا ہونا۔

السادی: فا۔ چمنا۔ مؤنث ساویة. ج سواد. التوق السوادی: کشادہ قدم رکھنے

والی اونٹنیاں۔ سذی سذی سذی. البسر: غلاف خرما کا ڈھیلا پڑنا۔ صفت (سیدم)..... الارض: زمین

کا بہت نمناک ہونا..... الليلة: بہت سببم والی ہونا۔ صفت (سیدیة).....

سذی سذی سذیا. القوب: تانا تانا۔ سذی. القوب (سیدیة): تانا تانا۔

..... الیه: احسان کرنا..... مسرؤفا: بھلائی کرنا۔

..... الارض: نمناک کرنا۔ اسذی اسذاء. القوب: تانا تانا۔ کہا جاتا

ہے "الحجم ما اسذت" یعنی جس احسان کو تم نے شروع کیا ہے اسے پورا کرو..... الیه

: احسان کرنا..... الارض: نمناک کرنا..... بیسهما: اصلاح کرنا..... الامر: بیکار

چھوڑنا۔ تسذی تسذیا. الشئ: سوار ہونا۔ چڑھنا۔ اوپر سے پلرنا..... القوب: تانا تانا۔

السذی: تانا۔ ج اسذیة: نمی۔ شبنم۔ شہد۔ بھلائی (..... والسذاء): بہزبکی کھجور۔

السذاء. من القوب: تانا۔ کہا جاتا ہے "ما انت بلخممة ولاسذاء" یعنی تم سے نہ کچھ نفع

ہے نہ نقصان۔ ایسل (سذی وسذی): بے کار چھوڑے ہوئے اونٹ (واحد وجمع کے لئے) کہا جاتا

ہے "ذهب ملامه سذی" اس کی گفتگو لغو و بیکار گئی۔

الاسذی والاسذی: وہ کپڑا جس کا تانا کیا گیا ہو۔

المسذاء: تانا تانے کا آلہ۔ السذاب: ایک بدبودار پودہ جس کے پتے

صقر کی طرح ہوتے ہیں۔ السذبة: ایک قسم کا برتن۔

الساذج: سادہ کا معرب۔ ایک قسم کی گھاس جو بغیر جڑ کے پانی کے اوپر پھلتی ہے۔ تیز

بات۔ السذاجة: سادگی۔

السذق: سادہ کا معرب۔ ایرانیوں کا ایک جشن ہے جس میں رات کے وقت صحرا و

بیابان میں آگ جلایا کرتے تھے۔ السوذق السذاق والسذقان والسذقان: کلکن۔ شکر۔ السوذق: زنجیر کا

حلقہ۔ السوذقی: چست۔ چالاک۔ منکبر۔

السذائق والسوذقیق والسوذائق: شکر۔ سرء (ن) مسرؤزا ومسرءة وسرءا وسرءی

..... الیه: احسان کرنا..... مسرؤفا: بھلائی کرنا۔

وتسرة: خوش کرنا۔

سرة (ن) سرة: ناف میں نیزہ مارا۔ الصبی: بچے کا نال کا نسا..... فلانا: پھولوں کا

گلدستہ دے کر مبارک باد دینا۔ سر (س) سرا: ناف میں درد ہونا۔

سر سرورزا: خوش ہونا۔ صفت (مسرورون)..... الصبی: ولادت کے وقت نال کا تانا جانا۔

أسرة اسرا: خوش کرنا۔ أسر الیسر: مجید چھپانا۔ مجید ظاہر کرنا (ضد)..... الیه بكذا:

چھپنے سے بیان کرنا..... الیه الموقدة وبالوقدة: اپنی دوستی کو پھپھانا۔

سررة: خوش کرنا۔ سررة سررة: لوٹدی سے شادی کرانا۔ اس میں لغت سراہ: بھی ہے۔

سارءة: پوشیدہ بات کرنا۔ کان میں بات کرنا۔

تسرور: لوٹدی بنانا۔ ایک لغت اس میں تسری: بھی ہے جیسے تظن: میں تظنی.....

القوب: کپڑے کا پھنسا۔ تسار. القوم: باہم سرگوشی کرنا اور ایک

دوسرے کے مجید پر مطلع ہونا۔ کہا جاتا ہے "تسار زید الی ماتکرة" یعنی جس سے تم کو

نفرت ہے زید کو اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے۔

امسر امسرار: لوٹدی کو ہم خواری کے لئے مخصوص کرنا..... غنہ: چھپنا..... القصر:

چاند کا ایک دورا تم پوشیدہ رہنا (یہ سرار سے ماخوذ ہے)..... الشئ: چھپانے میں

مبالغہ کرنا..... الزجل: خوش ہونا..... الزجل: اپنے مجید کو کسی سے ظاہر کرنا۔

السر: مہم۔ کہا جاتا ہے "زجل برسو" نیکی کر کے خوش ہونے والا مرد اور اسی طرح

"قوم برسون برسون" نیکی کر کے خوش ہونے والے لوگ۔

السر: ج۔ اسرار: مجید راز۔ کہا جاتا ہے "صدور الاخصار قبور الاسرار" احرار

کے سینے مجید کے لئے قبر ہیں۔ و"زجل

بِسْرَىٰ" کاموں کو پوشیدہ طور پر کرنے والا مرد۔ و "فَلَانٌ بَسْرٌ هَذَا الْأَمْرُ فَلَانٌ" اس امر کا جاننے والا ہے۔ البسْرُ: طریقہ۔
 وسط۔ وادی کا درمیان۔ خالص چیز۔ عمدہ و افضل چیز۔ پاک و عمدہ زمین۔ قمری مہینہ کی پہلی رات یا آخری رات یا درمیان مہینہ۔ اصل ہر چیز کا جوف و مغز۔ سِجْ اِسْرَةَ: جیسے قرن کی جمع اِقْنَةُ۔
 البسْرُ وَالسَّرُّ: بھٹیلی یا پیشانی کے خطوط۔ سِجْ اَسْرَارٌ: سِجْ اَسْرَارِيُو۔ اَسْرَارِيُو: چہرہ کی خوبیاں۔
 السَّرُّ: نال جس کو دائی جنائی ولادت کے وقت بچہ کی ناف سے کاٹی ہے۔ سِجْ اِسْرَةَ اور سُرْمَا اطلاق سرور کے معنی پر بھی ہوتا ہے۔
 السَّرُّ وَالسَّرُّر: بھٹیلی اور پیشانی کے خطوط۔ ناف کا وہ حصہ جس کو دائی جنائی کے وقت کاٹی ہے۔ السَّرُّر: قمری مہینے کی آخری رات۔ کسی چیز کا کھوکھلا ہونا۔
 السَّرَّةُ: گلہ دستہ۔
 السَّرَّةُ: نال جس کے ذریعہ سے جنین کے پیٹ میں غذا پہنچتی ہے۔ ناف۔ سِجْ سُرَاتٍ و سُرُرٍ سُرَّةُ الْوَادِي: وادی کا درمیان یا وادی کی بہترین جگہ۔ سُرَّةُ الْبَلَدِ: وسط شہر۔ سُرَّةُ الْحَوْضِ: حوض کی تہ میں پانی ٹھہرنے کی جگہ۔ سُرَّةُ الْقَرْمِصِ: ایک ستارہ۔
 اِمْرَاةٌ سُرَّةٌ: لوگوں کو خوش کرنے والی عورت۔ السُرُورُ: خوشی۔ نازبوی کی شاخیں۔
 السَّرِيْرُ: تخت۔ عموماً تخت شاہی کے لئے بولا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے "زَالَ عَنِ السَّرِيْرِ" یعنی اس کی عزت جاتی رہی۔ خواب گاہ۔ گردن اور سر کے ملنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "حَضَرْنَا اِسْرَةَ زُوُوْبِيْهِمْ" انہوں نے ان کی گردن میں سر کے ملنے کی جگہ پر مارا۔
 نَعْتٌ: فرائضی زندگانی۔ نیلہ پر کی ریت۔ سِجْ اِسْرَةَ و سُرُرٌ۔
 السَّرِيْمَةُ: عہد۔ راز۔ وہ امر جس کو پوشیدہ رکھا جائے۔ نیت۔ کہا جاتا ہے "هُوَ طَيِّبٌ

السَّرِيْمَةُ" وہ پاک دل صاف نیت والا ہے۔ سِجْ سُرَايِرُ۔
 السَّرِيْمَةُ: لوندھی جو ہم خوابی کے لئے مخصوص کی جائے۔ سِجْ سُرَايِرِي: اغلب یہی ہے کہ اس کا اشتقاق سِرٌّ سے ہے اور بعضوں کے نزدیک سرور سے ہے۔
 البسْرِيُو: بھائیوں سے اچھا سلوک کرنے والا اور ان کو خوش رکھنے والا۔
 السَّرْوَاءُ: خوشی۔ خوش حالی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ صَدِيْقٌ لَّهُمْ فِي السَّرْوَاءِ وَالضَّرَّاءِ" وہ ان لوگوں کا خوش حالی و بد حالی میں دوست ہے۔ سِجْ رِيْزِهِ وادی زمین۔ اَرْضٌ سَرَّاءٌ: عمدہ زمین۔ السَّرْوَاءُ: بخوبی نالی۔
 السَّرَارُ: بھٹیلی یا پیشانی کے خطوط۔ لکیریں۔ سِجْ اِسْرَةَ: السَّرَارُ: قمری مہینے کی آخری رات۔
 السَّرَارُ: خالص نسب۔ سَرَارُ الشَّهْرِ: قمری مہینے کی آخری رات۔ سَرَارُ الْوَادِي: وادی کی عمدہ جگہ۔
 السَّرَاةُ: خالص نسب۔ وادی کا درمیان۔ سَرَارَةُ الشَّيْ: عمدہ خالص۔ سِجْ سَرَارِ۔
 السَّرَاةُ: وہ خالص ہے جس کا خالص ہونا ظاہر ہے۔ و "هُوَ فِي سَرَارَةٍ مِنْ عَيْشِهِ": وہ اچھی زندگی میں ہے۔
 السَّرَاوَرَاءُ: خوشی و خوش حالی۔
 الْاَسْرَرُ: کھوکھلا چمٹاق۔ مِنْ الرِّجَالِ: انجہی۔ زیادہ ہونا۔
 السَّرَّةُ: مہم۔ خوشی۔ نازبوی کی شاخیں۔ سِجْ فِسْتَارُ۔
 السَّرَّةُ: ایک جوف دار لہ جس کو سننے والے کے کان میں لگا کر بات کرتے ہیں۔
 السَّرْرُوْرُ: خوشی۔ مَوْتٌ سَرْرُوْرَةٌ: سَرَارٌ (ف) سَرَارٌ و سَرَارٌ تَسْرَرَةٌ: الجَزَاةُ او السَّمَكَةُ او الضَّبَّةُ: ٹڈی یا چھلی یا گوہ کا ٹڈا دینا۔ السَّرْوَاءُ: بہت اولاد والی ہونا۔
 اَسْرَابُ السَّمَكَةِ: اٹڈے دینے والی ہونا۔

السَّرْوَةُ وَالسَّرْوَةُ وَالسَّرْوَةُ: ٹڈی چھلی، گوہ وغیرہ کا اٹڈا۔
 السَّرْوَةُ: مِنَ السَّمَكِ وَنَحْوِهَا: بہت اٹڈے والی۔ سِجْ سُرُوْرٌ و سَرَارٌ۔
 اَرْضٌ (سَرْوَةٌ): ٹڈیوں والی زمین۔
 سَرَبٌ (ن) سُرُوْبًا: المَاءُ: پانی کا چاری ہونا۔ السَّرْوَجُلُ: گھٹے چلے جانا۔
 الْاِبْرَبُ: چرنے کے لئے جانا۔ (سَرَبًا) السَّرْبَةُ: مٹک سینا۔
 سَرَبٌ (س) سَرَبًا: الْاِنَاءُ: برتن چمکنا۔ السَّرَبُ مِنَ الْاِنَاءِ: برتن سے پانی کا بہنا۔
 سُرَبٌ: ناک کے نتھنوں میں چاندی کا دھواں پہنچنے سے گھٹن لاحق ہونا۔ صفت سُرُوْبٌ۔
 سَرَبٌ: الْاِبْرَبُ: گروہ گروہ بھیجنا۔
 اِلْسَى الْاَشْيَاءُ: ایک کے بعد ایک دینا۔ السَّرَابُ: دائیں بائیں کھودنا۔
 السَّرْبَةُ: مٹک میں پانی ڈالنا۔ (وَأَسْرَبَ) الْمَاءُ مِنَ الْاِنَاءِ: برتن سے پانی بہانا۔
 تَسْرَبٌ: مِنَ الْمَاءِ: پانی سے بھر جانا۔
 السَّرْوَجُلُ: حُجْرَةٌ: حوشی جانور کا اپنے سوراخ میں داخل ہونا۔
 اِسْرَبٌ: سوراخ میں داخل ہونا۔
 السَّرَبُ مِنَ الْاِنَاءِ: برتن سے پانی بہنا۔
 السَّرَبُ: مہم۔ جانور۔ جانب۔ سینہ۔ راستہ۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ مُخْلِئٌ السَّرَبِ" فلاں پر کوئی تنگی نہیں کی گئی ہے۔
 "فَخَلِيَ لَدَى سَرَبِهِ" اس کا راستہ چھوڑ دو۔
 السَّرَبُ: بہروں کا گلہ۔ پرندوں کی ڈار۔ عورتوں کی جماعت۔ کھجور کے درختوں کا جھنڈ۔ راستہ۔ دل۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ وَايَسَعُ السَّرَبِ" فلاں کشادہ دل ہے۔ سِجْ اَسْرَابٌ۔
 السَّرَبُ: حوشی جانور کا سوراخ۔ تہ خانہ۔ نالی جس سے پانی آئے۔ مٹک سے بہنے والا پانی اور کہا جاتا ہے "طَرِيقُ سَرَبٍ" چلنا ہوا راستہ۔ سِجْ اَسْرَابٌ۔

السَّرْب: بِنْبِ وَالْإِطَانِ - مَزَادَةٌ سَرْبِيَّةٌ: يَبْنِي
وَالِي مَشْك -
السَّرْبِيَّة: قَرِيبٌ كَأَسْرٍ - مَشْكٌ كِي سَيُون -
السَّرْبِيَّة: بَرْنٌ أَوْ نَتْ وَغَيْرُهُ كَارِيُوزٌ - طَرِيقَةٌ -
أَكْثَرُ كِي بَيْتِ كِي قَطَارٌ - كَهْجُورُ كِي دَرِخْتُونَ كَا
خَمْبَرٌ - سِينِدُ كِي دَرْمِيَانِ مِثْلِ سَبِيْتِ تَكِ كِي
بَالِ - نَسْرَبُ -
السَّرَاب: وَهُوَ رِيْمَتَانِي رِيْتِ جُودُو پَهَرِ كِي
وَقْتِ دُحُوْبِ كِي تِيْزِي كِي وَجْهَ سَ بَانِي جِيْمَا
عَكْسِ نَظَرِ آتَا سَ اُوْر اِس مِثْلِ مَكَانُوْنِ اُوْر
دَرِخْتُوْنِ كَا سَايَ عَكْسِ كِي طَرَحِ مَعْلُومِ هُوْتَا سَ
جُھُوْتِ اُوْر كُرُوْفَرِيْبِ كِي لَئِي اِس سَ مِثَالِ
دِي جَاتِي سَ - كَہَا جَاتَا سَ "هُوَ أَخَذَ عَ مِنْ
السَّرَابِ" وَهَ سَرَابِ سَ زِيَادَةُ فَرَمِي سَ -
السَّرَاب: فَا - كَهْلَمِ كَهْلَا ظَاہِر - ظَبِيَّةٌ سَارِيَّةٌ:
چَرَاگَاہِ مِثْلِ جَانِے وَالِي بَرْنِ
(وَالسَّرُوْب) سِيْدِ حَا جَانِے وَالَا -
وَالْمَسْرَب: نَجْمُ سَرَابِ: جَانِے كِي جگہ -
كَہَا جَاتَا سَ "الْمَوْخَشِ وَالنَّعْمِ مَسْرَابٌ
وَمَسْرَابٌ" وَحَشِي جَانُورُوْنِ اُوْر چُو پَاؤُوْنِ كِي
لَئِي چَلِيے پَهْرِي كِي جگہ مِثْلِ سَرَابِ - مَسْرَبُ
القَاءِ: پَانِي بِنْبِي كِي جگہ -
السَّرْبِيَّة وَالْمَسْرَبِيَّة: چَرَاگَاہِ - سِينِدِ كِي
دَرْمِيَانِ مِثْلِ سَبِيْتِ تَكِ كِي بَالِ - آ نَسُوْنِ كَلْفِي
كِي جگہ - دَرِي - نَجْمُ سَرَابِ -
الْمَسْرَبُ: بَہْتِ لَسَا - تِيْزِ بِنْبِي وَالَا پَانِي -
سَرْبِيخُ: الرَّجُلُ خَفِيْفٌ وَسَبْكٌ هُوْتَا - آہِ تہ
چَلْنَا - دُو پَهَرِ مِثْلِ چَلْنَا -
السَّرْبِيخُ: كَشَادَةُ زَمِيْنِ جَسِ مِثْلِ آدِي گَمِ هُو
جَانِے -
قَفْرُ (سَرْبِيخُ وَ مَسْرَبِيخُ): بِيَابَانِ دُو رُوْرَا زِ
جَسِ مِثْلِ آدِي گَمِ هُو جَانِے -
سَرْبِيْلَةُ: كَرْتَا پَهْنَانَا -
تَسْرَبِيْلُ: بِالسَّرْبِيَالِ: كَرْتَا پَهْنَانَا -
السَّرْبِيَالُ: كَرْتَا يَاهِرُو دِ لَسَا جُو پَهْنَانَا جَانِے -
نَجْمُ سَرَابِيْلِ -
سَرَجُ (ن) سَرَجَا: جُھُوْتِ بُولَانَا الْمَرْأَةُ

شَعْرَهَا: چُوئی بَنَانَا -
سَرَجُ (س) سَرَجَا: جُھُوْتِ بُولَانَا -
خُو بَصُوْرَتِ چَہْرَہِ وَالَا ہُوْتَا -
سَرَجُ: الشَّيْءُ: خُو بَصُوْرَتِ بَنَانَا - سَرَجَةُ اللّٰہِ
تُو مِثْلِ دِيْنَا - سَرَجُ الشَّعْرِ: چُوئی بَنَانَا
التَّحْدِيْثُ: گُھَرْنَا - كَہَا جَاتَا سَ "سَرَجُ عَلِيٍّ
أَسْرُوْرُوْرَةٌ" اِس نَے مِيْرَے اُوْر جُھُوْتِ
گُھَرَا - "وَ اِنَّہُ لَيَسْرَجُ الْاَحَادِيْثِ
تَسْرِيْحًا": وَہُ جُھُوئی بَاتِيں گُھَرْنَا سَ - عَوَامِ
كَبِيْتِيے ہِيں "سَرَجُ النُّوْبِ": اِس نَے دُو رُوْرِ
سَلَانِي كِي اُوْر حَشِي سَرَجَةُ: شَمِيْنِ مَعْمَدِ سَ سَ -
أَسْرَجُ: الفُرْسُ: گُھُوْرُے پَرِزِيْنِ كَسْنَا -
..... السَّرَاجُ: چَرَاغُ رُوْشَنِ كَرْنَا -
تَسْرَجُ: عَلِيْہِ: جُھُوْتَا مَگَانِ كَرْنَا -
السَّرَجُ: زِيْنِ - نَجْمُ سُرُوْجِ:
السَّرَاجُ: چَرَاغُ - نَجْمُ سُرُوْجِ: سَرَاجُ
اللَّيْلِ: جگہنو -
السَّرِيْرُجُ: بَلِ كَاتِيْلِ - اِس كُو شِيْرِجِ بَہِي كَہَا
جَاتَا سَ -
السَّرَاجُ: جُھُوْتَا - زِيْنِ سَا زُو (السَّرَاجَةُ)
: زِيْنِ سَا زِي كَا پِيْشَہُ -
السَّرِيْجِيَاتُ: سَرِيْجِ لُو بَارِ كِي طَرَفِ مَنُوسِ
تَلُوَارِيں -
السَّرِيْجَةُ: چَرَاغُ دَانِ - نَجْمُ سَرَاجِ:
السَّرِيْجَةُ: چَرَاغُ - نَجْمُ سَرَاجِ:
السَّرِيْجَمُ: لَے قَدِ وَالَا -
السَّرِيْجِيْنِ وَالسَّرِيْجِيْنِ وَالسَّرِيْجُوْنِ: گُوْرِي -
سَرِيْحَتُ (ف) سَرِيْحَا وَ سَرُوْرُوْحَا -
السَّرِيْحِي: جَانُورُوْنِ كَا چَرْنِي كِي لَئِي
جَانَا -
..... السَّرِيْلُ: سِيْلَا كَا آہِ تہ بَہْنَا
(..... سَرِيْحَا) السَّرِيْحِي: جَانُورُوْنِ كُو چَرْنِي
كِي لَئِي چُھُوْرْنَا - سَرِيْحَةُ: بَہِيْمِيْنَا - سَرِيْحُ مَا
فِي صَدْرِيْہِ: دَلِ كِي بَاتِ ظَاہِرِ كَر دِيْنَا -
سَرِيْحُ (س) سَرِيْحَا: الرَّجُلُ: كَسِي كَا اِپَنِي
اِمُوْر كِي لَئِي لُكَلْنَا -
سَرِيْحُ (ن) السَّرِيْحِي: جَانُورُوْنِ كُو چَرْنِي كِي

لَئِي چُھُوْرْنَا السَّرِيْحُ: آ زَادِ كَرْنَا چُھُوْر دِيْنَا
..... السَّرِيْحَةُ: طَلَا قِ دِيْنَا - اِسْمُ (السَّرَاحِ)
: سَ - اِلَيْہِ رَسُوْلًا: پِيْغَا مَبْرُہِيْمِيْنَا الْاَمُوْر
: آ سَا نِ كَر دِيْنَا -
..... اللّٰہُ فَلَا نَا لِلْخِيْرِ: بَہْلَانِي كِي تُو فِئِي دِيْنَا -
..... الشَّعْرُ: كَنُكَلَا كَرْنَا عَنَدُ: كَشَادُ گِي كَر
دِيْنَا -
اِنْسَرَحَتِ: اللذَابَةُ: جَانُورِ كَا زَمِ ہُوْتَا اُوْر تِيْزِ
چَلْنَا السَّرَجُلُ: چِتِ لِيْثَانَا اُوْر تَا گَلِيں كَشَادِہ
كَرْنَا - نَجْمَا ہُوْتَا -
تَسْرَحُ: مِنَ الْمَكَانِ: نُكَلْنَا عَنَدُ: كَشَادُ گِي
كِيَا جَانَا الْكِنَانُ: كِتْمَانِ كِي اِجْزَاءِ كَا
عَلِيْمَہُ عَلِيْمَہُ ہُوْتَا -
السَّرْحُ: مَعْنُ - جَانُورِ - گُھَر كِي سَا نَے كَا
مَعْنُ - ہَر لَسَا دَرِخْتِ - بَے كَانُوْنِ كَا
دَرِخْتِ - وَاحِدُ (سَرِيْحَةُ) نَجْمُ سُرُوْجِ:
السَّرِيْحَةُ: جُوَانِ گَدِہِي جُو اَمِجِي حَا لَدُنہِ ہُوئی
ہُو -
خَيْلُ (سُرُوْحٌ وَ نَاقَةٌ سُرُوْحٌ): تِيْزِ اُوْر زَمِ رِفْقَارِ
گُھُوْرَا يَا اُوْمِي - مِشِيَّةٌ سُرُوْحٌ: زَمِ چَالِ -
عَطَاءُ سُرُوْحٌ: بَغِيْرِ نَالِ مَثُوْلِ كِي فُوْرِي
بَجَشَشُ -
السَّرِيْحَانُ: بَہِيْرِيَا - شِيْرُ - حَوْضُ كَا وَسَطُ - نَجْمُ
سَرَاحِ وَ سَرَاحِ وَ سَرَاحِيْنِ: ذَنْبُ
السَّرِيْحَانِ: فُجْرُ كَا ذَنْبُ -
السَّرِيْحَانَةُ: سَرِيْحَانُ: كَا مَوْنَتُ -
السَّرِيْحُ: مِنَ الْاَمُوْرِ: آ سَا نِ - جَلْدِي كِيَا
ہُوَا - جَلْدِي - وَالسَّرِيْحُ مِنَ الْخَيْلِ: نَگِي پِيْہِ
كَا گُھُوْرَا -
السَّرِيْحَةُ: تَمَرُ جَسِ سَ جُو تہ وَغَيْرِہِ سَا
جَانِے - كِيْزَا كَا كُھُوْرَا - نَجْمُ زَمِيْنِ كَا رُوْشَنِ
رَا سَتہ - نَجْمُ سَرَاحِ:
السَّرَاحُ: فَا - چَرُو اہَا جُو اُوْمُوْنِ كُو چَرَانِے -
جَانُورِ - مَوْنَتُ سَرَاحَةُ اُوْر كَہَا جَاتَا سَ
"مَالِہُ سَرَاحَةُ وَلَا زَبِيْحَةُ" لِيْعْنِي اِس كِي
پَا سَ كَچھُ نِيْسِ -
السَّرَاحُ (ن) سَرَاحِ وَ (السَّرِيْحَةُ)

السَّلَطْفُونُ کہتے ہیں۔ السَّرَطَانُ: ایک برج آسمانی کا نام ہے۔ ایک پھوڑے کا نام جس میں کیکڑے کی ٹانگوں کی طرح رگیں دکھائی دیتی ہیں اور کہا جاتا ہے "فَسْرَطَانُ سَرَطَانُ أَوْ سَرَطَانُ الْجَبْرِ" یعنی تیز دوڑنے والا گھوڑا۔

السَّرَطُ وَالْمَسَّرَطُ: حلق۔
المَسَّرَطُ: جلدی کھانے والا۔

سَرَطُ: گھبراہٹ کی وجہ سے تیز دوڑنا۔

السَّرَطُ وَالسَّرَطُ: بے ڈول۔ لمبا۔

السَّرَطُ وَالسَّرَطُ: بہت کھانے والا۔

سَرِعٌ (س) و سَرِعٌ (ک) سَرِعَةٌ

و سَرِعًا و سَرِعًا و سَرِعًا و سَرِعًا

و سَرِعَةً: جلدی کرنا۔

سَرَاعٌ: الیہ: سبقت کرنا۔ فِئِی

الْأَمْرِ: کوشش کرنا۔

أَسْرَعٌ: فِی الْمَشِیِّ: جلدی چلنا۔

تَسْرَعٌ و تَسْرَعٌ: الی الْأَمْرِ: سبقت

کرنا۔ جلدی کرنا۔ (تَسْرَعٌ بِالْأَمْرِ) سبقت

کرنا۔ تَسْرَعٌ الْأَمْرِ: جلدی ہونا۔

السَّرِعُ وَالسَّرِعُ: انگریزی تازہ شاخ۔ ہر تر

شاخ۔ سَرُوعٌ۔

سَرَعَانٌ و سَرَعَانٌ و سَرَعَانٌ: اسم فعل یعنی بر

فتم۔ بمعنی أَسْرَعٌ: یعنی جلدی کرو۔ کہا جاتا

ہے "سَرَعَانٌ الْقَوْمُ" یعنی اے قوم جلدی کر

اور کبھی تعجب کے لئے آتا ہے۔ جیسے

"لَسَرَعَانٌ مَا فَعَلْتُ" یعنی تو نے کس قدر

جلدی کی۔

سَرَعَانٌ و سَرَعَانٌ: الْقَوْمُ أَوْ الْخَيْلُ: سب

سے آگے کے لوگ یا گھوڑے۔ کہا جاتا ہے

"جَاءَ فِی سَرَعَانِ النَّاسِ" وہ سب سے

آگے کے لوگوں میں آیا۔

السَّرِيعُ: جلد باز۔ سَرِعَانٌ مَوْزَنٌ

سَرِيعَةٌ: ج سَرِيعٌ: اشعار کے اوزان میں

ایک وزن۔

السَّرِيعُ وَالسَّرِيعَانُ: جلد باز۔ مَوْزَنٌ

سَرْعِيٌّ۔

السَّرَادُ: موچی۔

السَّرَادُ: زرہ بنانے والا۔

السَّرَوْدُ وَالْمَسَّرُوْدُ وَالْمَسَّرُوْدَةُ: زرہ۔

السَّرْدَابُ: تہ خانہ۔ سَرَادِيْبٌ۔

سَرْدَحَةٌ: بے کار چھوڑنا۔

السَّرْدَاخُ وَالسَّرْدَاخَةُ: لہجی اونٹنی اور بقول

بعض مضبوط پر گوشت اونٹنی۔

السَّرْدَاخُ: کیلے کے درختوں کا جھنڈ۔ واحد

سِرْدَاخَةٌ۔ أَرْضُ سِرْدَاخَةٍ: ہموار زمین۔

دور کی زمین۔ سَرَادِيْحٌ و سَرَادِيْحٌ۔

سَرْدَقٌ: الیث: پردہ لگانا۔ شامیانہ لگانا۔

خیمہ لگانا۔

السَّرَادِقُ: شامیانہ۔ خیمہ۔ بلند غبار یا

دھواں جو کسی چیز کو محیط ہو۔ سَرَادِقَاتٌ۔

سَرَسٌ (س) سَرَسًا: بدخلق ہونا۔ جہالت

کے بعد دانہ ہوشیار ہونا۔

السَّرِسُ: عقل مند۔ زیرک۔ مقبوضہ چیز کا

محافظ۔

سَرَسَرٌ: الشَّفَرَةُ: دھار تیز کرنا۔

السَّرَسُورُ: زیرک۔ محبوب۔ خالص ساتھی

کہا جاتا ہے "هُوَ سَرَسُورٌ مَالٍ" وہ مال کا

بہتر منتظم ہے۔

السَّرَسَامُ: ایک دماغی بیماری کا نام۔

سَرَطٌ (ن) کو سَرَطٌ (س) سَرَطًا و سَرَطَانًا

و تَسْرَطٌ و اسْتَسْرَطٌ: الشَّيْءُ: لگنا۔

اسْتَسْرَطٌ: الشَّرَابُ فِی حَلْفِهِ: حلق میں

آسانی سے اُترنا۔

السَّرَاطُ: واضح راستہ۔

السَّرَاطُ: مِنَ السَّرَاطِ: بہت کائنات والی

تلوار۔

السَّرَاطِيٌّ: بہت کائنات والی تلوار۔

(.....) وَالسَّرَطُ وَالسَّرَاطُ وَالسَّرَطَةُ

وَالسَّرَاطُ وَالسَّرَاطِيٌّ: جلدی نکلنے والا۔

بہت کھانے والا۔ السَّرَطُ: تیز چلنے والا۔

السَّرَطِيٌّ: اسم سے سَرَطٌ: کا۔ لگنا۔

السَّرَطَانُ: مصل۔ کیکڑ اور اس کا نام غقرُبُ

الْمَاءِ بھی ہے اور عوام اس کو

سَرَطِيٌّ: بال یا کتاں وغیرہ کے جدا جدا

کرنے کا اوزار۔

السَّرَطُ: چراگاہ۔ سَرَطِيْحٌ۔

السَّرَطُ: وہ جگہ جہاں کہانیوں کو ڈراموں

میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کو المَسْرَحُ پڑھنا

عاطف ہے۔

السَّرَطِيْحُ: اوزان شعر کا ایک وزن

(.....) السَّرِيْحُ: مِنَ السَّرَطِيْحُ: تیز رفتار

گھوڑا۔ سَرَطِيْحٌ سَرِيْحٌ: لمبا رو۔

السَّرِيْحُ: بڑی۔

السَّرَاخُ: تَسْرِيْحٌ: کا اسم۔ کہا جاتا ہے

"أَفْعَلَةٌ فِی سَرَاخٍ وَرَوَاخٍ" یعنی اس کو

آسانی سے کرو۔

السَّرَاخُوبُ: گیدڑ۔ لمبا تناسب الاعضاء۔ ج

سَرَاخِيْبٌ۔

السَّرَاخُ: بھیر یا۔

سَرَدٌ (ن ض) سَرَدًا و سَرَادًا۔

الْجِلْدُ: چیز کے کوینا..... السَّرَدُ: کسی چیز میں

سوراخ کرنا..... السَّرَدُ: زرہ بننا.....

الْحَدِيثُ أَوْ الْقِرَاءَةُ: اچھی طرح بیان کرنا

یا پڑھنا..... السَّرَدُ: پے در پے روزے

رکھنا..... الْكِتَابُ: جلدی سے پڑھنا۔

سَرَدٌ و سَرَدٌ (س) سَرَدًا: لگاتار روزے

رکھنا۔

سَرَدًا و اسْرَدٌ: الْأَدِيمُ و نَحْوَهُ: چیزے

وغیرہ میں سوراخ کرنا اور لینا..... السَّرَدُ: السَّرَدُ

: درخت خرما کا پانی نہ ملنے سے مرجھانا۔

تَسْرَدٌ: الذُّرُّ: موتیوں کا لڑی میں ترتیب وار

ہونا۔ کہا جاتا ہے "تَسْرَدٌ دَفْعُهُ كَمَا

يَتَسْرَدُ اللَّوْلُوءُ": اس کے آنسو موتیوں کی

طرح ترتیب وار ہیں۔

السَّرَدُ: مصل۔ ہرزہ اور حلقہ کے لئے اسم

ہے۔ کہا جاتا ہے "نَجْمٌ سَرَدٌ"۔

السَّرَدُ: مصل۔ لگاتار ہونا۔

السَّرَادُ: پھل کو پانی نہ ملنے سے پڑھردگی۔

السَّرَادُ وَالسَّرِيدُ وَالْمَسْرَدُ: ستالی۔

السَّرَدُ: زبان۔ دہرا سلا ہوا ہوتا۔

الانسانِ نبع: کمان کی لکیریں۔ کہا جاتا ہے
 "قوس ذات انسانِ نبع" لکیروں والی کمان۔
 سفید جسم اور سرخ سر والے کیڑے۔ واحد
 (السُرُوعُ وَ السُرُوعُ)
 السمرع والسمرع: خیر یا شر کی طرف
 جلدی لپکنے والا۔ ج مسارع و مساربع۔
 کاٹی کے بڑے بڑے پودے سمندری
 کناروں پر ہوتے ہیں ان کو السروعاً بولتے
 ہیں۔
 السرعوف: نازک و سبک گوشت۔ مؤنث
 سرعوفة. السرعوفة: لمبے قد کی نازک
 بدن عورت۔ نڈی۔ کیڑے کو چاٹنے والا
 کیڑا۔
 سرفت (ن) سرفا. السرفة
 الشجرة: کیڑے کا درخت کے پتوں کو چاٹ
 جانا..... الام و لدھا: ماں کا بچہ کو زیادہ دودھ
 پلا کر بیمار کرنا۔
 سرف (س) سرفا. الامر: بے کار
 چھوڑنا۔ جاہل ہونا۔ خطا کرنا۔ کہا جاتا ہے
 "مافی عطاہم من ولا سرف" یعنی وہ
 لوگ داد و دہش کے موقع پر غلطی نہیں کرتے
 بایں طور کہ غیر مستحق کو دے دیں اور مستحق کو
 محروم کر دیں۔ سرف القوم: تجاؤز کرنا.....
 الطعام: کھن لگانا..... السرجل بالخمير:
 شراب کا حریس ہونا۔
 اسرف. المال: فضول خرچی کرنا..... فی
 كذا: حد سے تجاؤز کرنا۔ زیادتی کرنا۔ خطا
 کرنا۔ جاہل ہونا۔ غافل ہونا۔ صفت
 (سرف)
 السرفة: گھن۔ سرخ جسم اور کالے سر والا
 کیڑا جو چھوٹی لکڑیوں کو اپنے لعاب سے جوڑ
 کر گھرناتا ہے اور اس میں داخل ہو کر مر جاتا
 ہے۔ اسی سے مثال ہے "هو اصنع من
 سرفة" وہ سرف سے زیادہ کارگیر ہے۔
 السرف: حد و اعتدال سے تجاؤز کرنا۔
 زیادتی۔ خطا۔ کہا جاتا ہے "انكلت
 سرفا" اس نے جلدی سے کھایا۔

السرف. سرفه (مذکورہ بالا کیڑے) کا
 درخت کے پتوں کو چاٹ جانا۔
 زجل (سرف) الفواد: غافل مرد۔ سرف
 العقل: خراب یا کم عقل والا۔
 ارض (سرفة): زمین جس میں سرفہ کیڑے
 بہت ہوں۔
 السرف: سخت اور بڑا۔
 السرف: انگور کی بیل کی قطار۔
 سرف (ض) سرفا و سرفا و سرفة و سرفة
 و سرفانا. منه الشئ و سرفه الشئ:
 چرانا۔ کہا جاتا ہے "سرفوا لیلۃ من
 الشهر" جبکہ اس رات میں عیش کے ساتھ
 رہیں۔ و "سرفین غیبی" میری آنکھ
 میرے اوپر غالب ہوئی۔
 سرف. الزجل: کسی کے مال و متاع کا چوری
 ہو جانا..... سرفه: آواز پڑنا۔ گلا بیٹھ جانا۔
 صفت مسرؤفی الصوت.
 سرف (س) سرفا. الشئ: پوشیدہ ہونا۔
 سرفت مفاصلہ: جوڑوں کا سخت ہونا
 جانا۔
 سرفه: چوری کی نسبت کرنا۔ سرف
 الشئ: چرانا۔
 سرفه. النظر: ایک دوسرے کو دیریدہ نگاہ
 سے دیکھنا اس طرح کہ کسی اور کو علم نہ ہو۔
 سرف النظر الیہ: کسی کو دیریدہ نگاہ سے
 دیکھنا۔
 سرف: تھوڑا تھوڑا چرانا..... النظر
 والسمع: چوری سے دیکھنا یا سننا۔
 اسرف. غنہ: جانے کے لئے پیچھے ہٹنا۔
 اسرفت مفاصلہ: جوڑوں کا ست ہو
 جانا۔
 اسرف. منه الشئ: چرانا.....
 السمع: چھپ کر سننا..... الکاتب بعض
 المحاسبات: چھپا لینا۔ ظاہر نہ کرنا۔
 السرفة: ہنس۔ چرائی ہوئی چیز۔
 السارق: فاجہ سرفه و سراق
 و سارقون: مؤنث سارفة. السارفة: لوہے

یا چمڑے کا طوق۔ ج سراق۔ سراق۔
 السوارق: تالے کی زائد چمڑے۔
 السرفة: ہنس۔ حریر کا ٹکڑا۔ ج سرف (یہ
 کلمہ اس معنی کے لحاظ سے فارسی ہے۔)
 السراق: بہت چرانے والا۔
 السرف: چور۔ ج سرف.
 السرافة: چرائی ہوئی چیز۔
 السرف: فاجہ ناص کزور۔ مسرف
 الغنق: چھوٹی گردن والا۔
 السرف: ترش نیند۔
 السرفین و السرفین: گور۔ کھاد۔
 سرف (س) سرفا: قوت و توانائی کے بعد
 کزور جسم والا ہونا۔
 سرف و سرفو: لاغری یا جھکن کی وجہ
 سے آہستہ چلنا۔
 سرفه: بکڑے بکڑے کرنا۔
 سرف: بکڑے بکڑے ہونا۔
 السرف: مستقیم آنت کا کنارہ۔ ج اسرام.
 السرف: دربار کرد۔
 السرفان و السرفان: زرد سیاہ بھڑ۔
 السرفه: ہمیشہ۔ لیل سرفه: لمبی رات۔
 السرفه: جس کی ابتداء و انتہا نہ ہو۔
 سرفه. الشعر: بال ہلکے اور کم ہونا۔
 السرف و السرامط و السرفمط
 و السرفمط و السرفمط: ہر ایک لمبی
 چیز۔ السرفمط: ہر کھل وغیرہ جس میں کوئی
 چیز لپیٹی جائے۔ زجل سرفمط: ہر چیز کو
 لپکنے والا مرد۔
 السرفق: ایک گھاس کا نام۔
 السرفقیث: انگور کی ایک قسم۔
 سرفه. البسام: کوبان کو کاٹنا.....
 الصبی: بچہ کو اچھی خوراک کھلانا۔
 السرفه: کوبان کی چربی۔ ماء
 سرفه: بہت پانی۔
 السرفه: شمع۔ مونا۔
 سرفه. الغذاء: غذا کو عمدہ بنانا۔
 الصبی: بچہ کو اچھی خوراک کھلانا۔

جماعت۔ رات کو آنے والا بادل۔ ستون
..... عِنْدَ الْمَلَأَجِينِ: ستون۔ راج سوار۔
السَّرَابَةُ: متعدی مرض۔

السَّرَابِيَّةُ: ایک ادبی نظریہ جس میں منطق کو
کلی طور پر ترک کرنے کا نظریہ پیش کیا گیا۔
السَّرَابِيَّةُ وَالسَّرَابِيَا: شامی لُغَل (کلمہ فارسیہ
ہے۔)

السَّرَابِيَّةُ: چھوٹی ٹڈی۔ راج اَسْرِيَّةُ وَسُرْيَانُ.
السَّرَابِيَّةُ: دست فوج۔ تیر کا چھوٹا اور گول
پھل۔ راج سَرَابِيَا.

السَّاسِبُ وَالسَّيْبُ وَالسَّيْبُ: ایک
درخت کا نام جس کی لکڑی سے تیر بناتے
ہیں۔

السَّيْبَانُ: ایک درخت جس کے پتے
چوڑے اور پھول سفید ہوتے ہیں اور اس کا
دانہ مشابہ کی پتھری کو توڑنے کے لئے
استعمال کرتے ہیں۔

الاسط: لمبی ٹانگوں والا مرد۔
السُّطَطُ: ظالم لوگ۔

السُّطَطَةُ وَالسُّطَطَةُ: چھوٹے نہائی
کبکشاں۔ فقراء اور سائلین کے جمع ہونے کی
جگہ۔ سرائے۔ راج مَسَاطِب (ساد کے
ساتھ المبع ہے۔)

سَطْحَه (ف) سَطْحًا: بچھانا۔ بچھاڑنا۔
لٹانا۔ کہا جاتا ہے "خُزِرَ بِهِ فَسَطْحَهُ" اس
نے اس کو مارتے مارتے بچھا دیا (وَسَطَّحَ)
الْبَيْتُ: چھت کو ہموار کرنا۔ سَطَّحَ وَسَطَّحَ
الْفَاقَةُ: اونٹنی کو بٹھانا۔

تَسَطَّحَ: ہموار ہونا۔
إِنْسَطَّحَ: بغیر کسی حرکت کے چت لیٹنا۔
پھیلنا۔

السَّطْحُ: مصل۔ چھت۔ چوڑی چوٹی۔ راج
سَطْوَح.
السَّطِيحُ: پھیلا ہوا۔ کمزوری یا بیماری کی وجہ
سے سستی سے اٹھنے والا (وَالسَّطِيحَةُ) توش
دان۔

السُّطَّاحُ: ایک قسم کی گھاس۔ زمین پر پھیلنے

اور بھی ذکر استعمال کیا جاتا ہے۔ راج
سَرَاوِيل. فَرَسٌ (مُسْرُولٌ) بازوؤں اور
رانوں تک سفیدی والا گھوڑا۔

حَمَامَةٌ (مُسْرُولَةٌ): ٹانگوں پر پروا والا کبوتر۔
سُرِي سُرِي سُرِي وَسُرِيَّةٌ وَسُرِيَّةٌ
وَمِسْرَابَةٌ وَسُرْيَانًا وَمُسْرَبِيٌّ وَإِسْتُرِيٌّ:
رات میں چلنا۔ صفت (سار) راج سُرَابَةٌ

وَسُرِيٌّ يَه: رات میں سفر کرنا اور سُرِي عَوْقُ
الشَّجَرَةِ: درخت کی جڑ کا زمین کے نیچے پھل
پڑنا۔ مَسْرِي الدَّمُ فِي العُرْوِقِ: خون کا
رگوں میں دوڑنا..... الهَمُّ: غم زائل ہونا اور

کہا جاتا ہے "سَرِيَّ الجِرْحُ العِيسِي
النَّفْسِ: یعنی زخم نے اثر کیا یہاں تک کہ
ہلاکت واقع ہوگئی۔
سُرِي. غَنَّةٌ: غصہ یا غم کا زائل ہونا۔

أَسْرِيَّ إِسْرَاءَ: رات میں چلنا..... الرَّجُلُ:
کشادہ زمین کی طرف جانا۔

سُرِي. غَنَّةٌ: اور عَنْ قَلْبِهِ: کسی سے غم دور کرنا
..... قَائِدُ العَيْشِ: کمانڈر کا دست فوج بھیجنا۔
سَارِي. صَاحِبُهُ: ساتھ ساتھ رات میں
چلنا۔

تَسْرِيَّ وَإِسْرِيَّ: دیکھئے مادہ س رو۔
السَّرِيَّ وَالسَّرِيَّانُ وَالسَّرِيَّةُ: مصادرو۔
رات کا سفر اور عرب کا قول "عِنْدَ الصَّبَاحِ
يُحْمَدُ القَوْمَ السَّرِيَّ" مثال ہے جو ایسے
موقع پر بولتے ہیں کہ مشقت برداشت
کرنے میں راحت کی امید ہو۔ اِنْسُرُنُ

السَّرِيَّ: رات کا مسافر۔
السَّرِيَّةُ: ٹڈی کا بچہ جو ابھی کیڑے کی شکل کا
ہو۔

السَّرَاةُ: ہر چیز کا بالائی حصہ۔ مَسْرَاةُ العَجَلِ:
پھاڑ کی چوٹی۔ مَسْرَاةُ الضُّحَى: ابتدائی
وقت چاشت۔

السَّرَاءُ: رات میں بہت چلنے والا۔
السَّرَايُ: فَا۔ راج مَسْرَاةُ (.....) وَالْمَسَارِي
وَالْمُسْتَرِي (شیر۔
السَّرَايَةُ: ساری کاموں مث۔ رات کو چلنے والی

سَرَايَسُورُ سَرُورًا. سَرَبَتِ العَجْرَادَةُ: ٹڈی
کا اٹھنے دینا (.....) وَسُرِي تَسْرِيَّةٌ
وَأَسْرِي إِسْرَاءَ) الفُؤَبُ غَنَّةٌ: کپڑے
اُتَارَنَا۔

سَرَايَسُورُ وَسَرُ وَيَسُورُ وَسِرِي يَسْرِي
مَسْرُورًا وَسَرَاوَةٌ وَسَرَاوِسْرَاءُ: صاحب
مروت و سخاوت ہونا۔

سُرِيَّ وَإِسْرِيَّ إِسْرَاءَ. غَنَّةٌ الهَمُّ: غم
زائل ہونا۔ دور ہونا۔ سُرِيَّ القَوْمُ: سردار
قوم کا مارا جانا۔

سَارَاهُ مَسَارَاةً: ایک دوسرے پر فخر کرنا۔
تَسْرِيَّ تَسْرِيًّا: مختلف مروت و سخاوت
کرنا۔ لوٹنی کو ہم خواری کے لئے مقرر کرنا۔

إِسْتَرِيَّ إِسْتِرَاءً: اختیار کرنا۔ چننا۔ المَوْتُ
القَوْمُ: قوم کے سرداروں میں موت واقع
ہونا۔

السَّرُورُ: مصل۔ فضل۔ مروت و سخاوت۔ ایک
درخت کا نام۔ واحد (سُرُورَةٌ) أَبُو السَّرُورِ: بخور۔
السَّرُورُ: آواز والے صندوق ایک سیدھا
سوراخ۔

السَّرُورِيَّةُ: ایک پودے کا نام۔
السَّرُورَةُ وَالسَّرُورَةُ وَالسَّرُورَةُ: چھوٹا تیر
اور بقول بعض چوڑے پھل کا تیر۔ راج سِرِي
وَسُرِيَّ السَّرُورَةُ: ٹڈی کا بچہ جو ابھی کیڑے
کی شکل کا ہو۔

السَّرَاةُ: پیٹھ۔ دن کی چڑھائی..... مِثْنُ
الطَّرِيقِ: درمیان درہ۔ راج سَرَاوَاتِ.
سَرَاوَاتِ القَوْمِ: سردار ان قوم۔

السَّرِيَّ: صاحب شرف و مروت یا صاحب
مروت و سخاوت۔ شریف خجی سردار۔ ہر چیز میں
عمدہ۔ راج سُرِيَّ وَسْرَاةٌ وَسْرَاةٌ وَأَسْرِيَاءُ
وَسُرُورَاءُ مَوْتٌ سُرِيَّةٌ راج سَرِيَّاتِ
وَسَرَايَا.

سُرُورَةٌ: پاجامہ پہنانا۔
تَسْرُولُ: پاجامہ پہننا۔
السَّرُورَالُ وَالسَّرُورَالَةُ وَالسَّرُورِيَّ
پاجامہ۔ ازار۔ کلمہ فارسی ہے اور مَوْتٌ ہے

ہوئی تیل۔ واحد (سَطَاخَةٌ)

المِسْطَاحُ: ہموار کرنے کا اوزار۔ بیلن۔

خیمہ کا ستون۔ کھلیان۔ کھجوروں کے خشک

کرنے کی جگہ (.....) والو المِسْطَاحُ: کھجور کی

شاخوں کی چٹائی۔ کہا جاتا ہے "زَائِيْثُ

الْأَرْضِ مَسَاطِحُ" میں نے زمین کو چراگاہ

سے خالی دیکھا۔

الْمُسْتَطْحُ: وہ شکل جس کو ایک خط گھیرے۔

أَنْفٌ (مُسْتَطْحٌ): بہت پھیلی ہوئی ناک۔

المُسْتَوْحُ: مقبول لہا پڑا ہوا۔

سَطْرٌ (ن) سَطْرًا: لکھنا..... ہ بالسَّيْفِ:

تلوار سے کاٹنا۔ سَطْرًا الرَّجُلُ: پچھاڑنا۔

سَطَرَ: بے اصل باتیں جمع کرنا.....

عَلَيْهِ: گھڑی ہوئی باتیں بیان کرنا.....

الْقِرْطَاسُ: سیدھی سطر ہونے کے لئے

کلیں کھینچنا۔

أَسْطَرُ: پڑھنے میں غلطی کرنا۔

أَسْطَرَ: لکھنا۔ کہا جاتا ہے "ہذا

مُسْتَطْرٌ" یہ لکھا ہوا ہے۔

السَّطْرُ وَالسَّطْرُ: تظار۔ کبیر۔ کہا جاتا ہے

"تَحَبَّ سَطْرًا" و "عَرَسَ سَطْرًا وَبَنَى

سَطْرًا مِنْ بِنَائِهِ" جِ اسْطَرُ وَسَطْوَرُ

وَأَسْطَارٌ وَجِ اسْطَابِيرٌ اور کہا جاتا ہے "إِنَّ

هَذَا إِلاَّ سَاطِيرُ الْاَوَّلِيْنَ: یہ تو کچھ بھی نہیں۔

صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلے سے چلی آ

ری ہیں۔ السَطْرُ: تحریر و کتابت۔ ایک سالہ

کبری۔

السُّطْرَةُ: آرزو۔

السُّطْرُ: چکنی چیز یا باتیں۔

الْاِسْطَارُ وَالْاِسْطَارُ وَالْاِسْطَوْرُ

وَالْاِسْطَبِيرُ: وايضاً بالہاءِ فِي كَلِمَاتِهَا: ہر وہ

چیز جو کبھی جائے۔ جِ اسْطَابِيرُ: الْاِسْطَوْرَةُ

وَالْاِسْطَبِيرَةُ: بے اصل بات۔

السَّاطِرُ وَالسَّاطِرُ: قصاب۔

النَّسَاطُورُ: گوشت کاٹنے کی چھری۔ جِ

سَوَاطِيرُ: الْمَسْطَرَّةُ وَالْمَسْطَرَّةُ: کبیروں کے کھینچنے کا

رولر۔ جِ مَسَاطِرُ.

الْمُسْطَارُ وَالْمُسْطَارَةُ وَالْمُسْطَارُ

وَالْمُسْطَارَةُ: تیز شراب جو پینے والے کو

پچھاڑ دے۔ شيرة اُغْوَرِ پکانے سے پہلے بلند

غبار۔

سَطَعَ (ف) سَطَعًا وَسَطَوْعًا وَسَطِيْعًا.

الْعَبَارُ او الزَائِحَةُ وَالنُّوْرُ: غبار یا یو یاروشنی کا

بلند ہونا۔ پھیلنا اور اسی سے ہے "سَطَعْتُ

زَائِحَةً الْمَسْكَ" یعنی مسک کی خوشبو پھیلی

..... بِبَدَنِيْهِ: تالی بجانا۔ تم کہتے ہو "سَطَعْتَنِيْ

زَائِحَةَ الْمَسْكَ" جبکہ مسک کی خوشبو

تمہاری ناک میں پہنچے (..... سَطَعًا)

وَأَسْفَعُ: گردن لمبی کر کے سرائٹھانا۔

الْبَعِيْرُ: گردن یا پہلو پر لمبا داغ لگانا۔

سَطَعَ (س) سَطَعًا: دراز گردن ہونا۔

صفت (أَسْطَعُ) مَوْتٌ (سَطَعَاءُ)

سَطَعُهُ: بلند کرنا۔ اٹھانا۔ پھیلا نا..... الْبَعِيْرُ:

گردن یا پہلو پر لمبا داغ لگانا۔

السَّطَعُ: مص۔ ہر وہ چیز جو بلند ہو اور پھیلے

عام اس سے کہ غبار ہو یا روشنی یا بجلی۔

السَّطَعُ: تالی۔ تالی بجانے یا تیز پھینکنے کی

آواز۔

السَّطَاعُ: لمبا اونٹ۔ خیمہ یا گھر کا سب سے

لمبا ستون۔ اونٹ کی گردن یا پہلو میں لمبا

داغ۔ جِ سَطَعَ وَأَسْطَعَةُ.

السَّطِيْعُ: صبح۔ لمبا۔

المِسْطَاحُ: فصیح۔ خوش بیان۔ کہا جاتا ہے

"حَطِيْبٌ مِسْطَاحٌ وَمِسْطَاحٌ": یعنی بلند

لیکچرار۔

سَطَلَهُ (ض ن) سَطَلًا: الذَّوَاءُ: مد ہوش

کرنا۔

أَسْطَلُ وَأَسْطَلٌ: مد ہوش ہونا (لغت عوام

ہے) کہا جاتا ہے جَاءَ (يَسْطَلُ) وہ تنہا آیا

اس کے ساتھ کچھ نہ تھا۔

السَّاطِلُ: مِنَ الْعَبَارِ: بلند غبار۔

السَّطَلُ: ایک تانے کا برتن جس میں دست لگا

أَسْطَالٌ وَسَطْوَلٌ: مرد دراز قامت۔

السَّيْطَلُ: بمعنی سَطَلٌ اور بقول بعض بمعنی

طشت۔

الْأَسْطَالُ: جہازوں کا بیڑا۔ جِ

أَسَاطِيلُ (کلمہ عجمی ہے)

سَطَمَ (ن) سَطَمًا: الْبَابُ: دروازہ

بھیڑنا۔ بند کرنا۔

السَّطَامُ: آگ کی کرلیٹی۔ شیشی کی ذات۔

تلوار کی دھار۔

السَّطَمُ: مص۔ تلوار کی دھار۔

السَّطَمُ: بڑیں۔

الْاِسْطَامُ: آگ بلانے کی کرلیٹی۔

الْاِسْطَمُ وَالْاِسْطَمَةُ: مِنْ نَحْلِ شَيْءٍ:

درمیان۔ بڑا حصہ..... مِنَ الْبَحْرِ: سمندر کا

بڑا حصہ اور اسی سے ہے "وَلَيْسَ طَمًا

أَسْطَمُهُ" رات کی تاریکی بہت بڑھ گئی۔

أَسْطَمَةُ الْقَوْمِ: قوم کے جمع ہونے کی جگہ۔

اشراف قوم۔ کہا جاتا ہے "هُوَ فِيْ أَسْطَمَةِ

قَوْمِهِ" وہ اپنی قوم کے درمیان میں ہے۔ جِ

أَسَاطِمُ.

السَّاطِنُ: خبیث۔ پلید۔

الْاِسْطَانُ: ایک پتیل کا برتن۔

الْاِسْطَابُونُ: مِنَ الْجَمَالِ: لمبی گردن کا

اونٹ۔

الْاِسْطَوَانَةُ: کھمبا۔ ستون۔ جانور کی ٹانگہ۔

جِ اسْطَابِيْنٌ (کلمہ اجنبی ہے) کہا جاتا ہے

"هَمَّ اسْطَابِيْنُ الزَّمَانِ" وہ لوگ زمانہ کے

یکتا ہیں۔ و "اسْطَابِيْنٌ مُسْطَمَةٌ" مضبوط

کھبے۔

المُسْتَطِنُ: لمبی ٹانگوں والا۔

سَطَايِسَطُوْ سَطْوًا وَسَطْوَةٌ: بہ و عَلَيْهِ: کسی

پر حملہ کرنا۔ مغلوب کرنا۔ مضبوط پکڑنا۔

..... الْقِرْسُ: خود سری سے دور در قدم رکھنا

..... الْمَاءُ: بہت ہونا۔ کہا جاتا ہے "مَسَا

سَطُوْتُ فِي الطَّعَامِ" میں نے کھانے کو نہیں

چکھا۔

أَسْطَى اسْطَاءً عَلَيْهِ: بمعنی سطا۔

ساطی۔ الرَّجُلُ: بختی برتنا۔ نرمی کرنا (ضد)
السَّاطِطِي: فا۔ دور دور قدم رکھ کر چلنے والا
گھوڑا۔ وہ گھوڑا جو چلنے میں دم کو اٹھائے۔
تَسَعَبَ الشَّيْءُ: تار سا کھینچنا (جیسے شہد شیرہ
وغیرہ سے)
إِتْسَعَبَ: الماء: پانی بہنا۔

السَّعْبُ: ہرزوجت والی چیز جس سے تار کی
مانند کھنچے۔
السُّعْبُوبُ: شہد۔ شیرہ۔ لعاب خطمی وغیرہ کا
تاریخ سَعَابِيْبُ۔

المُسْتَعَبُ: جائز۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مُسْتَعَبٌ
لَهُ" وہ اس کے لئے جائز ہے۔

السَّعْبَرُ: بہت پانی والا اکواں۔ فناء سَعْبَرٌ:
بہت پانی۔ سَعْبَرٌ سَعْبَرٌ: ارزاں نرخ۔ رخ۔
سَعَابِرُ سَعَابِرُ الطَّعَامِ: گیہوں کا پھوڑن۔
السَّعْبَرُ: پہاڑی پودینہ (نفت جیدہ صَعْبَرُ
بالصاد ہے۔)

السَّعْبَرِيُّ: او الصَّعْبَرِيُّ: بہادر۔ بختی۔
چالاک۔

سَعَدٌ: (ف) سَعْدًا وَسُعُودًا. الْيَوْمُ:
مبارک ہونا۔

سَعَدٌ: (س) وَسَعِدٌ سَعَادَةٌ: نیک بخت
ہونا۔ صفت (سَعِيدٌ) رَج سَعْدَاءُ
(وَسُعُودٌ) رَج سَعَادِيْدٌ۔

سَاعَدَهُ: عَلِي الْأَمِيرُ: کسی کی کسی کام پر مدد
کرنا۔

أَسْعَدَهُ: عَلِي الْأَمْرُ: مدد کرنا۔ أَسْعَدَهُ اللَّهُ:
نیک بخت بنانا۔ صفت (مُسْعُودٌ) مُسْعَدٌ
نہیں کہا جاتا۔

تَسَعَّدَ: مبارک ہونا..... الرَّاعِي: سَعْدَانُ:
گھاس کی چراگاہ تلاش کرنا۔

إِسْتَسْعَدَ: بِالشَّيْءِ: اپنے لئے مبارک سمجھنا۔
کہا جاتا ہے "إِسْتَسْعَدَ فَلَانٌ بَرُوِيَةَ فَلَانٍ"
فلان نے فلان کے دیکھنے کو اپنے لئے
مبارک سمجھا۔

السُّعْدُ: برکت۔ خوش بختی۔ رَج أَسْعُدِدُ
سُعُودٌ: کہا جاتا ہے: "لِيَكِ"

وَسُعْدِيْكُ" یعنی میں تمہاری خدمت کے
لئے بار بار حاضر ہوں۔ سَعُودُ النُّجُومِ: دس
ستارے ہیں جن میں سے ہر ایک کو سَعْدُ کہا
جاتا ہے۔

السُّعْدُ: سعدی پودے کی ایک قسم ہے اس
سے عمدہ قسم کا بیازا گایا جاتا ہے۔

السَّاعِدُ: فا۔ سردار۔ کہا جاتا ہے "مَالَهُمْ
سَاعِدٌ يَغْتَمِدُونَ" ان کے لئے کوئی سردار
نہیں جس پر اعتماد و بھروسہ کریں۔ بازو۔ کہا
جاتا ہے..... "شَدَّ اللَّهُ عَلَي سَاعِدِكَ"

اللہ تعالیٰ تمہارے بازو کو مضبوط
کریں۔ سَاعِدَا الطَّيْرِ: پرندے کے بازو۔
رَج السَّوَاعِدِ: کہا جاتا ہے "طَائِرٌ شَدِيدٌ
السَّوَاعِدِ: مضبوط بازو والا پرندہ۔

السَّاعِدَةُ: چرخی کا ڈنڈا۔ رَج السَّوَاعِدِ:
السَّوَاعِدِ: دریا یا سمندر کی طرف پانی جانے
کے نالے۔ بڑی میں مغز کی نالی۔ گھن میں
دو دو ٹکٹے کے سوراخ۔ السَّاعِدَةُ: سونے یا
چاندی کا بازو بند۔ شیر۔

السَّاعَاةُ: نیک بختی۔
السَّعَادِي: سوتھا جو ایک قسم کی خوشبودار
گھاس ہے جو زمروں کے لئے بہت مفید
ہے۔

السَّعْدَانُ: ایک خاردار پودہ جو اونٹوں کے
لئے بہتر چارہ ہے اور اسی سے مثل ہے
"مَرْغِي وَلَا كَالسَّعْدَانِ" اس شخص کے حق
میں بولتے ہیں جو کم پر قناعت کر لے۔

السَّعْدَانُ: إِسْعَادٌ: کا اسم ہے۔ کہا جاتا ہے
"سُبْحَانَ اللَّهِ وَسَعْدَانَهُ" یعنی میں خدا کی
پاکی بیان کرتا ہوں اور اس کی تابعداری کرتا
ہوں۔

السَّعْدَانَةُ: کبوتر۔ پستان کا سر یا پستان کے
سر کی ارد گرد کی سیاہی۔ حلقہ ڈیر۔ ترازو کی
رسی کی گرہ۔
السُّعُودَةُ: نیک بختی۔

سُعَادٌ وَسُعْدَانٌ: فرضی محبوبہ کے نام۔ جن کو
قدیم شعراء تعظیم میں استعمال کرتے تھے۔

سَعَرَ (ف) سَعَرًا وَسَعَرَ النَّارُ: آگ
بھڑکانا..... البَعِيرُ الْإِبِلُ بِجَرْبِهِ: کھلی
پھیلانا۔ سَعَرَ الْقَوْمُ شَرًّا: ساری قوم میں
بدی پھیلا دینا۔ سَعَرَ نَاهِمُ بِالنَّبْلِ: جلانا۔

پیوست کرنا۔ سَعَرَ اللَّيْلُ بِالْمَطْيِ: طے
کرنا۔ سَعَرَتِ النَّاقَةُ فِي سَيْرِهَا: اونٹنی کا

تیز دوڑنا۔ صفت (سَعُورٌ) کہا جاتا ہے
"سَعَرَتِ الْيَوْمُ فِي حَاجَتِي سَعْرَةً" یعنی
میں آج اپنی ضرورت سے تمام دن چکر لگاتا
رہا۔

سَعَرَ (س) سَعْرًا. الْفَرَسُ: گھوڑے کا تیز
دوڑنا۔

سَعَرَ: البَعِيرُ: اونٹ کا پاگل ہونا۔ صفت
(مَسْعُورٌ)..... الرَّجُلُ: گرم ہوا سے مجلس
جانا۔

سَعَرَ: النَّارُ: آگ بھڑکانا..... الشَّيْءُ: کسی
چیز کا بھاء مقرر کرنا یا بھاء کا اندازہ کرنا۔
..... الْقَوْمُ: بھاء پر اتفاق کرنا۔

سَاعَرَهُ مُسَاعَرَةً: بھاء ٹھہرانا۔
تَسَعَّرَتِ النَّارُ: آگ بھڑکانا..... الخَطْبُ:
کڑی کا جل اٹھنا۔

إِسْتَسْعَرَ: بھڑکانا..... الشَّرُّ: برائی کا پھیلانا.....
التَّجْرِبُ فِي البَعِيرِ: اونٹ کی بغل وغیرہ میں
کھلی شروع ہونا۔

السَّعْرُ: مِص: زَمْصِي سَعْرٌ: سخت تکلیف دہ
تیر اندازی۔

السَّعْرُ: نَرْخ: رَج أَسْعَارُ:
السَّعْرُ: گرمی۔ سخت بھوک (.....) والسَّعْرُ
دیوانگی۔ السَّعْرُ: رَج وَعَذَابُ۔

السَّعْرُ: پاگل۔ دیوانہ۔ رَج سَعْرِيًّا:
السَّعْرَةُ: کام کی ابتداء اور اس کی تیزی۔
کھانسی۔

حرارت کی پیمائش میں اکیلی۔
السَّعْرُ وَالسَّعْرَةُ: سیاہی مائل رنگ۔
السَّعِيرُ: آگ کی لپیٹ۔ رَج سَعُورًا:
السَّعَارُ: گرمی۔ بھوک کی تیزی۔ پیاس کی
شدت۔

بھوت۔ سَعَالِيّاتِ وَمِسْقَلِيّاتِ۔ السَّعَالِيّ: پودوں کا نام جو حشیشۃ السُّعَالِ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ السَّاعِلِ وَالْمَسْعَلِ: طلق یا طلق میں کھانے کی جگہ۔ سَعَمَ (ف) سَعَمًا، البَعِيرُ: اونٹ کا تیز چلنا۔ صفت (سَعْمُ) سَعْمَةٌ وَسَعْمَةٌ: غذا دینا۔ سَيْلٌ (مِسْعَامٌ وَمُسْعَامٌ) تیز سیلاب۔ أَسْعَنُ: بڑا خیمہ یا سائبان بنانا۔ تَسْعَنُ: الجمل: خوب موٹا ہونا۔ السَّعْنُ: چربی۔ خالص شراب۔ السَّعْنُ: مشک جس کا نصف حصہ کاٹ کر ڈول بنا لیں۔ رَج سَعْنَةٌ۔ السَّعْنَةُ: مبارک۔ منحوس (خدا) کھانے کی کثرت یا قلت۔ کہا جاتا ہے "مَنَالَةُ سَعْنَةٍ وَلَا مَعْنَةَ" یعنی اس کے پاس کچھ نہیں۔ السَّعْنَةُ: سائبان۔ اونٹ کے بالائی ہونٹ کا لڑکا ہوا حصہ۔ رَج سَعْنُ۔ السَّعْنُ: بڑا ڈول۔ السَّعْنَانِيْنُ: عیسائیوں کا تہوار جو عیدِ فصح سے پہلے ہوتا ہے۔ مشہور السَّعْنَانِيْنُ معجمہ: سے ہے۔ (مغرب)	حاجت پوری کرنا۔ سَعَفٌ: (س) سَعْفًا: ناخن کے ارد گرد پھٹی ہوئی انگلیوں والا ہونا۔ سَعْفٌ، الوَجْدُ: بھنسیوں والا ہونا۔ صفت (مَسْعُوفٌ) سَعْفٌ، المِسْكُ: مشک کو دوسری خوشبوؤں سے ملانا۔ سَاعَفَهُ: موافقت کرنا۔ مدد دینا۔ أَسْعَفَهُ: بخاجتہ: کسی کی حاجت پوری کرنا۔ ه عَلِيّ الأَمْرُ: مدد کرنا۔ أَسْعَفَ بِالرَّجُلِ: کسی کے قریب ہونا۔ الشَّيْءُ: قریب ہونا۔ أَسْعَفَ لَهُ الصَّيْدُ: شکار کا موقع دینا۔ أَسْعَفَتِ الحَاجَةَ: حاجت کا قریب پہنچنا۔ وَقْتُ آتٍ..... إِلَيْهِ تَوَجُّهٌ: قصد کرنا۔ تَسَعَّفَتْ: اظْفَارُهُ: پھٹنا۔ السَّعْفُ: مص۔ سامان۔ کینڈا آدمی۔ السَّعْفَةُ: پھنسیاں جو منہ یا سر میں لگتی ہیں۔ السَّعْفُ: مص۔ دہن کا جبین۔ سامان خانہ۔ رَج سَعْفُوفٌ: کھجلی کی مانند اونٹ کے منہ کا ایک مرض۔ کھجور کی شاخ۔ واحد (سَعْفَةٌ) السَّعْفُوفُ: بڑے پیالے۔ انسانی خصلتیں۔ مشل جو دو کرم۔ گھریلو سامان (اس کے لئے واحد نہیں)	السَّاعُوْرُ: آگ۔ تور۔ السَّاعُوْرَةُ: آگ۔ الأسْعُرُ: دو بلا تپا جس کے پٹھے ظاہر ہوں۔ سیاہی مائل رنگ والا۔ مؤنث سَعْرَاءُ رَج سَعْرُ۔ المِسْعَرُ: آگ جلانے والا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مِسْعَرٌ حَرْبٌ" وہ لڑائی بھڑکانے والا ہے۔ سخت۔ لسی گردن۔ كَلْبٌ مِسْعَرٌ: دیوانہ کتا۔۔۔۔۔۔ والمِسْعَارُ: آگ جلانے کی چیز۔ المِسْعُوْرُ: باوجود شکم سیری کے کھانے کا حریص۔ نَاقَةٌ مِسْعُوْرَةٌ: دیوانی اونٹنی۔ مَسَاعِرُ البَعِيرِ: اونٹ کی ران کی جڑیں اور بغل۔ کہا جاتا ہے أَخَذَ الحَرْبُ فِى مَسَاعِرِ البَعِيرِ، اونٹ کی ران کی جڑوں میں کھجلی شروع ہوئی۔ السَّعْرَاةُ وَالسَّعْرُوْرَةُ: صبح۔ شعاع۔ آفتاب جو روشن دان میں داخل ہو۔ سَعْنَعٌ وَتَسْنَعٌ: بہت بوڑھا ہونا۔ السَّيْحُ: بڑھاپے کی وجہ سے لڑکھڑاتا۔ قریب قریب قدم رکھنا۔ سَعْنَعٌ رَاسَهُ: سر کو تیل سے تر کرنا۔ السَّعْنُ: بھیڑ یا۔ سَعْنَةٌ: (ف) سَعْنًا وَسَعْنَةً: اسَعْنَهُ، السَّعْنَةُ: ناک میں ڈالنا۔ کہا جاتا ہے "أَسْعَنَهُ الرُّمْحُ" اس نے ناک میں تیزہ مارا۔ و"أَسْعَنَهُ عِلْمًا" اس نے اس کو علم سمجھانے میں بہت کوشش کی۔ أَسْعَطُ: الذَّوَاءُ: ناک میں چڑھانا۔ أَسْتَسْعَطُهُ: ناک میں دوا چڑھانے کو کہنا۔ السَّعِيْطُ: خوشبو۔ بان کا درخت۔ بان کا تیل۔ رائی کا تیل (.....) والسَّعَاطُ: بوکی تیزی۔ السَّعُوْطُ: ناک میں چڑھانے کی دوا۔ نسوار (مولدہ) اور عوام "عَطُوْسُ" کہتے ہیں۔ المِسْعَطُ وَالْمَسْعَطُ: نسوار کی ڈبیا۔ سَعْفَةٌ: (ف) سَعْفًا، بخاجتہ: کسی کی
---	--	--

صہ کس قدر خوبصورت ہے۔ السَّفْرَجَل: بھی۔ سَج سَفَانِج اور کھی سَفَارِل بھی کہا جاتا ہے۔ واحد (سَفْرَجَلَة) السَّفِير: دلال۔ خادم۔ منتظم۔ ظریف وزیرک۔ ماہر لوہار۔ داروغہ۔ سَج سَفَابِرَة وسَفَابِير۔ السَّفْطَة والسَّفِيْطَة: استدلال و قیاس جس کی بنیاد و مغلطہ پر ہو۔ سَج سَفْطَات اور نسبت کے لئے (سَفْطَطِي وَسُوْفْطَانِي) السُّوْفْطَانِيَّة: ایک فرقہ جو محوسات و بدیہیات کا انکار کرتا ہے۔ العَمَل: کام کو اچھی طرح سے نہ کرنا۔ سَفْتَه الرِّيح: سطح زمین سے اڑانا۔ المُسْفِيْفَة: ہوا جو غبار کو اڑائے۔ المُسْفِيْف: مرد کم عطاء و نیکم۔ سَفْسَق: الطائر: پرندہ کا بیٹ کرنا۔ السَّفْسَقَة والسَّفِيْقَة: مِنَ السَّيْف: تلوار کا جوہر۔ سَج سَفَاقِي: کہا جاتا ہے "طریق وَاضِح السَّفَاقِي" واضح نشانات کا راستہ۔ السَّفَاقِي: ہر کسی چیز۔ السَّفْوَوقَة: راستہ کا درمیان۔ مشابہت۔ کہا جاتا ہے "فِيْهِ سَفْوَوقَة مِنَ اَبِيْهِ" اس میں اس کے باپ کی مشابہت ہے۔ و"سَفْوَوقَة السَّيْف": تلوار کا جوہر۔ سَفْط: (ن) سَفْطَا. السَّمَكَة: مچھلی کے سٹے اتارتا۔ سَفْط: (ن) سَفَاطَة: مٹی و پاکیزہ نفس ہوتا۔ سَفْط. الحَوْض: حوض کو درست کرنا اور باند بنانا۔ سَفْطَة: تھوڑا تھوڑا پینا۔ جذب کرنا۔ سَفْط. الشَّيْ: کل لے لینا۔ کل پی جانا۔ السَّفْط: مچھلی کا سٹنا۔ نوکری۔ جامہ دان۔ سَج اَسْفَاط۔ السَّفَاط: نوکری بنانے والا۔	السَّفْر: مسافت کو طے کرنا۔ غروب آفتاب کے کچھ بعد کا وقت۔ سَج اَسْفَار۔ السَّفْرَة: مسافر کا کھانا۔ زاد سفر۔ دسترخوان۔ سَج سَفْر۔ السَّفَار والسَّفَارَة: مہار۔ چڑایا لوہا جس کو اونٹ کی ناک پر رکھتے ہیں۔ سَج اَسْفِرَة و سَفْر و سَفَابِر۔ السَّافِر: فا۔ مسافر۔ سَج اَسْفَار و سَفْر و سَفْرَة و سَفَار و سَج اَسْفِر۔ و السَّافِر: کاتب۔ سَج سَفْرَة۔ السَّافِرَة. السَّافِر: کاموث۔ سَج سَوَابِر: مسافرین۔ کہا جاتا ہے "مَحْفَرَت السَّافِرَة" ہنا" یہاں سفر کرنے والے بہت ہیں اور کہا جاتا ہے "قَوْم سَافِرَة" سفر کرنے والی قوم۔ السَّفِير: دو قوموں کے درمیان صلح کرانے والا۔ سَج سَفَرَاء: اچھی۔ گرے ہوئے بال یا پتے۔ کھیتی کا پھل اچھا۔ السَّفِيْرَة: چاندی یا سونے کا ہار۔ سَج سَفَاتر۔ السَّفَارَة والسَّفَارَة: اچھی گرمی۔ قوموں کے درمیان اصلاح۔ السَّفَارَة: جہاز دوینے سے جمع کیا ہوا کوڑا کرکٹ۔ السَّفَارَة: مسافر لوگ۔ السَّفُور: کرہ کی شکل کی ایک مچھلی جس میں کانٹے بہت ہوتے ہیں اور اس کو "سَفْؤُفُ" القَاء" بھی کہتے ہیں۔ السَّفُورَة: مٹی کے جس پر حساب لکھیں اور اقل کرنے کے بعد مٹادیں۔ السَّافِر: جنگلی بیل۔ المَسَافِرَة: گائے۔ المنفَر و المنفَر: بہت سفر کرنے والا۔ مَوْتَسَفِرَة۔ المنفُور: سفر سے تھکا ہوا۔ المنفُورَة: جہاز و۔ سَج مَسَافِر و مَسَافِر السَّفْر: چہرہ کے وہ حصے جو نمایاں ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے "مَسَاحِسَن مَسْفَر و جِہہ السَّفْرَة: چہرہ کھولنا۔ صفت (مَسَافِر) الصُّخ: روشن ہونا۔ الخَرْب: لڑائی کا ختم ہونا (..... سَفْرًا) النَّيْت: گھر کو جھاڑو دینا۔ السَّرِيْح الغَيْم: ہوا کا بادل کو اڑا دینا۔ الْكِتَاب: لکھنا۔ الشَّيْ: جدا جدا کرنا۔ الْبَعِيْر: ناک میں نکیل لگانا۔ کھیت کے نچلے حصہ کو چرانا۔ سَفْر: (ن ض) سَفْرًا و سَفَارَة و سَفَارَة بَيْن القَوْم: لوگوں میں صلح کرانا۔ صفت (سَفِير) سَج سَفْرَاء۔ أَسْفَر: چہرہ کھولنا۔ الصُّخ: روشن ہونا۔ الوَجْه: چہرہ خوبصورت و منور ہونا۔ الخَرْب: لڑائی ختم ہونا۔ مَقْدَم رَابِع: سر کے اگلے حصہ کے بال جھڑنا۔ أَسْفَر الشَّجْر: پتے گرنا۔ البَعِيْر: یعنی سَفْرَة۔ سَفْر الرِّجْل: سفر کے لئے بھیجنا۔ الْبَعِيْر: نکیل لگانا۔ النَّار: آگ بجھکانا۔ سَافِر سَافِرًا و مَسَافِرَة إِلَى بَلَد كَذَا: روانہ ہونا۔ فُلَان: مرنا۔ سَافِرْت عَنْهُ الْحَمِي: بخار چھوٹنا۔ تَسْفَر: ابتدائی رات میں آنا یا چرانا۔ شَيْنًا مِنْ حَاجِبِهِ: کچھ حاصل کرنا۔ الجَلْد: کھال کا اثر پذیر ہونا۔ الصَّرَاة: عورت سے چہرہ کھولنے کو کہنا۔ أَسْفَر. شَعْرُهُ عَنْ رَابِعِهِ: سر سے بال جھڑنا۔ الغَيْم: بادلوں کا پراگندہ ہونا۔ الإِبِل: جانا۔ أَسْفَر. الصَّرَاة: عورت سے چہرہ کھولنے کو کہنا۔ السَّفْر: معص۔ جسم انسانی کا داغ۔ سَج سَفُور اور کہا جاتا ہے "رَجُل سَفْر" یعنی مسافر و "قَوْم سَفْر": یعنی مسافرین و "نَاقَة سَفْر" سفر کرنے والی اونٹنی اور سرج مسافر کی ہے جیسے صاحب کی جمع صُحْب۔ السَّفْر: بڑی کتاب۔ توریت کے اجزاء میں
---	--	---

<p>الرِّيحُ: ہوا کے چلنے کی چل جگہ۔ السَّفَالَةُ: کینگی وِجِست۔</p>	<p>سَفَقُ: (ک) سَفَاقَةُ. الثُّوبُ: کپڑے کا گف ہونا۔</p>	<p>السَّفِيْطُ: پاکیزہ نفس۔ سخی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ سَفِيْطُ النَّفْسِ": وہ سخی و پاکیزہ نفس ہے۔</p>
<p>السَّفِالَةُ: در۔ مِنَ الرِّيحِ: نیزے کا نچلا حصہ۔ کہا جاتا ہے "مَسَاعِلَةُ الرِّيحِ كَمَا فِي النَّهْرِ: سَفِالَتِهِ: ندی کا نشیبی حصہ۔</p>	<p>السَّفَقُ: الباب: دروازہ کا بھیرا جانا۔ السَّفَقَةُ: طراخی۔ تھپڑ۔</p>	<p>کینہ اور ہرے قدر چیز (ضد) اور درخت سے گری ہوئی بزرگجور۔</p>
<p>کہا جاتا ہے "مَسْرُوْتُ بِعَالِيَةِ النَّهْرِ وَسَفِالَتِهِ" میرا گزر ندی کی بلند و پست جگہ پر ہوا۔</p>	<p>السَّفِيْقُ: گف کپڑا۔ رَجُلٌ سَفِيْقٌ الْوَجْهِ: بے حیا مرد۔</p>	<p>مُسْفَطُ: الرِّاسُ: بڑے سرو والا۔</p>
<p>الاسْفَلُ: پست تر۔ ج اسْفَلُ: کہا جاتا ہے "رَدَدْنَا هُ اسْفَلُ سَافِلِيْنَ" ہم اس کو پستی کی حالت والوں سے بھی پست تر کر دیتے ہیں۔</p>	<p>السَّفِيْقَةُ: سونے وغیرہ کا باریک تار۔ لکڑی کا چوڑا لمبا ٹکڑا جس پر چٹائی وغیرہ لپیٹی جاتی ہے۔</p>	<p>سَفَعَةُ: (ف) سَفَعًا: طمانچہ مارنا۔ الشَّيْءُ: نشان لگانا۔۔۔۔۔ بِسَاصِيْبَتِهِ: پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچنا۔۔۔۔۔ وَسَفَعْتُ السُّمُوْمَ وَوَجْهَهُ: لو کا چہرہ کو جھل کر رنگ بدل دینا۔</p>
<p>السَّفَلَةُ: پست تر۔ کہتے ہیں "اَنَا اسْكُنُ فِي مَعْلَاةِ الْمَدِيْنَةِ وَفَلَانٌ فِي مَسْفَلِيْهَا" میں شہر کے بالائی حصہ میں رہتا ہوں اور فلاں نشیبی حصہ میں رہتا ہے۔</p>	<p>سَفَكُ (ض) سَفَكَ. الْمَاءُ او الدَّمُ: پانی یا خون بہانا۔۔۔۔۔ الْكَلَامُ: بہت بولنا۔</p>	<p>سَفَعُ: (س) سَفَعًا: سرخی مائل سیاہ ہونا۔ سَفَاعَةُ: ایک دوسرے کو تھپڑ مارنا۔ سب سے لگانا۔ ایک دوسرے کو ہٹانا۔ لڑائی کرنا۔</p>
<p>السَّفَلَةُ: پست تر۔ کہتے ہیں "اَنَا اسْكُنُ فِي مَعْلَاةِ الْمَدِيْنَةِ وَفَلَانٌ فِي مَسْفَلِيْهَا" میں شہر کے بالائی حصہ میں رہتا ہوں اور فلاں نشیبی حصہ میں رہتا ہے۔</p>	<p>سَفَكَةُ: کسی کے سامنے سفکہ: پیش کرنا۔ (دیکھئے سَفَكَةُ)</p>	<p>تَسْفَعُ: بِالنَّارِ: آگ تاپنا۔</p>
<p>السَّفَلَةُ: پست تر۔ کہتے ہیں "اَنَا اسْكُنُ فِي مَعْلَاةِ الْمَدِيْنَةِ وَفَلَانٌ فِي مَسْفَلِيْهَا" میں شہر کے بالائی حصہ میں رہتا ہوں اور فلاں نشیبی حصہ میں رہتا ہے۔</p>	<p>السَّفَكُ: گرا۔ بہنا۔</p>	<p>السَّفَعُ: الرِّجْلُ: کپڑا پہننا۔</p>
<p>السَّفَلَةُ: پست تر۔ کہتے ہیں "اَنَا اسْكُنُ فِي مَعْلَاةِ الْمَدِيْنَةِ وَفَلَانٌ فِي مَسْفَلِيْهَا" میں شہر کے بالائی حصہ میں رہتا ہوں اور فلاں نشیبی حصہ میں رہتا ہے۔</p>	<p>السَّفُوكُ وَالسَّفَاكُ: بہت خون گرانے والا اور کہا جاتا ہے "مَسْفُوكٌ او سَفَاكٌ بِالْكَلَامِ": وہ بڑا جھوٹا ہے۔</p>	<p>السَّفَعُ: لَوْثُهُ: خوف وغیرہ سے رنگ بدل جانا۔</p>
<p>السَّفَلَةُ: پست تر۔ کہتے ہیں "اَنَا اسْكُنُ فِي مَعْلَاةِ الْمَدِيْنَةِ وَفَلَانٌ فِي مَسْفَلِيْهَا" میں شہر کے بالائی حصہ میں رہتا ہوں اور فلاں نشیبی حصہ میں رہتا ہے۔</p>	<p>السَّفِيْكُ: گرایا ہوا۔ بہا یا ہوا۔</p>	<p>السَّفَعُ: مَصُ: کپڑا۔ رنگا ہوا کپڑا۔ ج سَفُوعُ</p>
<p>السَّفَلَةُ: پست تر۔ کہتے ہیں "اَنَا اسْكُنُ فِي مَعْلَاةِ الْمَدِيْنَةِ وَفَلَانٌ فِي مَسْفَلِيْهَا" میں شہر کے بالائی حصہ میں رہتا ہوں اور فلاں نشیبی حصہ میں رہتا ہے۔</p>	<p>رَجُلٌ (مَسْفُوكٌ): بڑا باتوئی مرد۔</p>	<p>السَّفَعُ وَالسَّفَعَةُ: سرخی مائل سیاہی۔</p>
<p>السَّفَلَةُ: پست تر۔ کہتے ہیں "اَنَا اسْكُنُ فِي مَعْلَاةِ الْمَدِيْنَةِ وَفَلَانٌ فِي مَسْفَلِيْهَا" میں شہر کے بالائی حصہ میں رہتا ہوں اور فلاں نشیبی حصہ میں رہتا ہے۔</p>	<p>السَّفَكَةُ: وہ چیز جو مہمان کے سامنے غذا سے پہلے دل بہلاؤ اور وقت گزاری کے لئے پیش کی جائے۔</p>	<p>السَّفَعُ: السَّفَعَةُ: دانہ اندرائن۔</p>
<p>السَّفَلَةُ: پست تر۔ کہتے ہیں "اَنَا اسْكُنُ فِي مَعْلَاةِ الْمَدِيْنَةِ وَفَلَانٌ فِي مَسْفَلِيْهَا" میں شہر کے بالائی حصہ میں رہتا ہوں اور فلاں نشیبی حصہ میں رہتا ہے۔</p>	<p>السَّفَلُ: (ن) وَسَفَلُ (س) وَسَفَلُ (ك) سَفُولاً وَسَفَالاً: پست ہونا۔ نیچا ہونا۔ حقیر ہونا۔ صفت (سَافِلٌ) ج سَافِلُونَ وَسَفَلَةٌ وَسَفَلٌ وَسَفَالٌ وَسَفَلَانٌ. (سَفَلٌ) (ك) سَفَلًا وَسَفَلًا وَسَفَالًا فِي عِلْمِهِ او خُلُقِهِ: ادنی ہونا۔۔۔۔۔ سَفُولاً فِي الشَّيْءِ: نیچے اترنا۔</p>	<p>السَّفَعُ: الشَّمْسُ: آفتاب کا سیاہ داغ۔ سَفَعُ النَّوْرِ: تیل کے چہرہ کی سیاہ چیتاں۔ السَّوْفَاعُ: لو کی پیشیں۔ مفرد (سَافِعَةٌ) الاسْفَعُ: سرخی مائل سیاہ رنگ والا۔ مَرُوْنَتُ سَفَعَاءُ ج سَفَعٌ شُكْرًا۔ جنگلی تیل۔ السَّفَعَاءُ: دیگ دان کا ایک پایہ۔ حَمَامَةُ سَفَعَاءُ: سبز گردن والا کبوتر۔</p>
<p>السَّفَلَةُ: پست تر۔ کہتے ہیں "اَنَا اسْكُنُ فِي مَعْلَاةِ الْمَدِيْنَةِ وَفَلَانٌ فِي مَسْفَلِيْهَا" میں شہر کے بالائی حصہ میں رہتا ہوں اور فلاں نشیبی حصہ میں رہتا ہے۔</p>	<p>سَفَلُ: (ن) وَسَفَلُ (س) وَسَفَلُ (ك) سَفُولاً وَسَفَالاً: پست ہونا۔ نیچا ہونا۔ حقیر ہونا۔ صفت (سَافِلٌ) ج سَافِلُونَ وَسَفَلَةٌ وَسَفَلٌ وَسَفَالٌ وَسَفَلَانٌ. (سَفَلٌ) (ك) سَفَلًا وَسَفَلًا وَسَفَالًا فِي عِلْمِهِ او خُلُقِهِ: ادنی ہونا۔۔۔۔۔ سَفُولاً فِي الشَّيْءِ: نیچے اترنا۔</p>	<p>السَّفَعُ: العَيْنُ: وحشی ہوئی آنکھ والا۔ قُوْرٌ (مَسْفُوعٌ): چہرہ میں سیاہ چیتوں والا تیل۔ كَمِيٌّ مَسْفُوعٌ: آبن پوش بہادر جو لوہے کے رنگ سے کالا پڑ گیا ہو۔</p>
<p>السَّفَلَةُ: پست تر۔ کہتے ہیں "اَنَا اسْكُنُ فِي مَعْلَاةِ الْمَدِيْنَةِ وَفَلَانٌ فِي مَسْفَلِيْهَا" میں شہر کے بالائی حصہ میں رہتا ہوں اور فلاں نشیبی حصہ میں رہتا ہے۔</p>	<p>سَفَلَةُ: نیچے اترنا (سَافِلَةٌ) کینگی کے افعال میں مقابلہ کرنا۔</p>	<p>السَّفَعُ: العَيْنُ: وحشی ہوئی آنکھ والا۔ قُوْرٌ (مَسْفُوعٌ): چہرہ میں سیاہ چیتوں والا تیل۔ كَمِيٌّ مَسْفُوعٌ: آبن پوش بہادر جو لوہے کے رنگ سے کالا پڑ گیا ہو۔</p>
<p>السَّفَلَةُ: پست تر۔ کہتے ہیں "اَنَا اسْكُنُ فِي مَعْلَاةِ الْمَدِيْنَةِ وَفَلَانٌ فِي مَسْفَلِيْهَا" میں شہر کے بالائی حصہ میں رہتا ہوں اور فلاں نشیبی حصہ میں رہتا ہے۔</p>	<p>تَسْفَلُ: آہستہ آہستہ نیچے اترنا۔</p>	<p>السَّفَعُ: العَيْنُ: وحشی ہوئی آنکھ والا۔ قُوْرٌ (مَسْفُوعٌ): چہرہ میں سیاہ چیتوں والا تیل۔ كَمِيٌّ مَسْفُوعٌ: آبن پوش بہادر جو لوہے کے رنگ سے کالا پڑ گیا ہو۔</p>
<p>السَّفَلَةُ: پست تر۔ کہتے ہیں "اَنَا اسْكُنُ فِي مَعْلَاةِ الْمَدِيْنَةِ وَفَلَانٌ فِي مَسْفَلِيْهَا" میں شہر کے بالائی حصہ میں رہتا ہوں اور فلاں نشیبی حصہ میں رہتا ہے۔</p>	<p>السَّفَلُ: آہستہ آہستہ نیچے اترنا۔</p>	<p>السَّفَعُ: العَيْنُ: وحشی ہوئی آنکھ والا۔ قُوْرٌ (مَسْفُوعٌ): چہرہ میں سیاہ چیتوں والا تیل۔ كَمِيٌّ مَسْفُوعٌ: آبن پوش بہادر جو لوہے کے رنگ سے کالا پڑ گیا ہو۔</p>
<p>السَّفَلَةُ: پست تر۔ کہتے ہیں "اَنَا اسْكُنُ فِي مَعْلَاةِ الْمَدِيْنَةِ وَفَلَانٌ فِي مَسْفَلِيْهَا" میں شہر کے بالائی حصہ میں رہتا ہوں اور فلاں نشیبی حصہ میں رہتا ہے۔</p>	<p>السَّفَلُ وَالسَّفَلَةُ: سب سے مچلا حصہ۔ سَفَالَةُ كُلِّ شَيْءٍ: پست۔ پست۔ (سَفَلَةُ الْقَوْمِ وَسَفَلَتُهُمْ) ادنیٰ درجہ کے لوگ۔ سَفَالَةُ</p>	<p>السَّفَعُ: العَيْنُ: وحشی ہوئی آنکھ والا۔ قُوْرٌ (مَسْفُوعٌ): چہرہ میں سیاہ چیتوں والا تیل۔ كَمِيٌّ مَسْفُوعٌ: آبن پوش بہادر جو لوہے کے رنگ سے کالا پڑ گیا ہو۔</p>
<p>السَّفَلَةُ: پست تر۔ کہتے ہیں "اَنَا اسْكُنُ فِي مَعْلَاةِ الْمَدِيْنَةِ وَفَلَانٌ فِي مَسْفَلِيْهَا" میں شہر کے بالائی حصہ میں رہتا ہوں اور فلاں نشیبی حصہ میں رہتا ہے۔</p>	<p>السَّفَلُ وَالسَّفَلَةُ: سب سے مچلا حصہ۔ سَفَالَةُ كُلِّ شَيْءٍ: پست۔ پست۔ (سَفَلَةُ الْقَوْمِ وَسَفَلَتُهُمْ) ادنیٰ درجہ کے لوگ۔ سَفَالَةُ</p>	<p>السَّفَعُ: العَيْنُ: وحشی ہوئی آنکھ والا۔ قُوْرٌ (مَسْفُوعٌ): چہرہ میں سیاہ چیتوں والا تیل۔ كَمِيٌّ مَسْفُوعٌ: آبن پوش بہادر جو لوہے کے رنگ سے کالا پڑ گیا ہو۔</p>

السَّفْح: تیز۔ لہا۔ مَوْنُث سَفْحَةٌ۔
 الإِسْفَانُخ: پاک کا ساگ۔
 الإِسْفِنَط وَالإِسْفِنَطُ: خوشبودار گھوڑی
 شراب۔ (دخیل)
 سَفْحَةٌ: (ن) سَفْحًا. الرَّجُلُ: گالی دینے میں
 غالب آنا۔ بے وقوفی پر برا سمجھنا کرنا..... یا
 بے وقوفی کی طرف نسبت کرنا..... نَسْفَةٌ:
 ذلیل کرنا۔ اپنے آپ کو ہلکا سمجھنا۔ سَفْفَةٌ
 نَصِيئَةٌ: اپنا حصہ بھولنا۔
 سَفْفَةٌ: (س) سَفْفًا: غیر۔ بردبار یا جاہل یا
 ردی اخلاق والا ہونا۔ صفت (سَفْفِيہ) ج
 لِسْفَاةٌ وَسَفْفَاءٌ: مَوْنُث سَفْفِيہ ج سَفْفَاةٌ
 وَسَفْفَةٌ وَسَفْفَانَةٌ وَسَفْفِيَّاتٌ. سَفْفِيَّتٌ:
 الطَّعْنَةُ: جلدی خون بہنا۔ سَفْفَةُ الشَّرَابِ:
 بہت پینا..... نَصِيئَةٌ: اپنا حصہ بھولنا۔
 سَفْفَةٌ: (ک) سَفْفَاهَةٌ وَسَفْفَاهَا: جاہل ہونا۔
 بے وقوف ہونا۔
 سَفْفَةٌ الرَّجُلِ: بے وقوف بنانا۔ بے وقوفی کی
 طرف نسبت کرنا۔ کہا جاتا ہے "سَفْفَةُ الْجَهْلِ"
 جلمہ، اس کی جہالت نے اس کی عقل کو پیش
 میں جتلا کر دیا۔
 سَفْفِيَّةٌ: گالی گلوچ کرنا..... الدَّنُّ: مٹکے کے
 پاس بیٹھ کر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پینا۔
 پینے میں زیادتی کرنا اور انکل کے بغیر اندازہ
 کے پینا۔
 أَسْفَفٌ: اللَّهُ فَلَانَا الْمَاءَ: بہت پلانا اور سیر نہ
 ہونے دینا۔
 تَسْفَفٌ الرَّجُلِ: بتکلف بے وقوف بننا۔
 الرَّيْبُ: ہوا کا غیر ہموار چلنا..... الرَّيْبُ
 الغُصْبُونُ: شاخوں کو جھکا دینا..... فَلَانَا عَيْنَ
 مَالِهِ: فریب دینا۔
 تَسَافَةٌ عَلَيْنَا: نادانی کرنا۔ جہالت کا سلوک
 کرنا۔
 السَّفْسَفَةُ: ہمس۔ جہالت۔ عدم بردباری۔
 بد اخلاقی۔
 السَّالِيَةُ: فَا۔ بے وقوف۔ بہت پیاسا۔
 وَاِدٍ (مُسْفَهٌ): بھری ہوئی وادی۔

السَّفْفِيَّةُ: بہت پارا پانے والی خوراک۔
 کہا جاتا ہے "طَعَامٌ - هَيْئَةٌ".
 سَفًّا يَسْفُو سَفْوًا: تیز چو۔ ایسا تیز اڑنا۔
 سَفْفِيٌّ: (س) سَفًّا وَهَاءٌ: پیشانی میں کم
 بال والا ہونا..... الرَّجُلُ: بے وقوف ہونا۔
 صفت (سَفْفِيٌّ) سَفْفِيَّتٌ يَدُهُ: ہاتھ کا پھٹنا۔
 أَسْفِيٌّ: بے وقوف ہونا..... فَلَانَا: طیش پر
 آمادہ کرنا..... یہ: ہرائی کرنا۔ أَسْفَتِ النَّاقَةَ:
 وابل ہونا۔ أَسْفَى الزَّرْعُ: خوش کے خشک
 اطراف والی ہونا..... الرَّيْبُ: ہوا کا چلنا۔
 سَافِيٌّ: الرَّجُلُ: گالی دینا۔ علاج کرنا۔
 السَّفَا: پیشانی میں بالوں کی کمی۔ مٹی۔ دُبلَا
 يَنْ: ہر خاردار درخت۔ واحد (سَفْفَاةٌ)
 وَالسَّفَا مِِنَ السَّنْبِيلِ: خوش کا خار۔
 السَّفَاءُ: دوا۔
 بَعْلٌ (أَسْفِيٌّ): پیشانی میں کم بال والا خچر۔ تیز
 رفتار۔ مَوْنُث سَفْوَاءٌ. رَيْبُ سَفْوَاءٍ: غیر
 ہموار تیز چلنے والی ہوا۔
 سَفْفِيٌّ يَسْفِي سَفْفًا وَأَسْفِيْ أَسْفَاءً. سَفْتٌ
 وَأَسْفَتِ الرَّيْبُ الشَّرَابَ: خاک اڑانا۔
 صفت (سَافِيَّةٌ) ج سَافِيَّاتٌ وَسَوَافِيٌّ.
 سَفْفِيٌّ يَسْفِي سَفْفًا. الشَّرَابُ: غبار اڑنا۔
 السَّافِيَاءُ: غبار۔
 السَفْفِيُّ: ہوا جس کو اڑائے۔
 السَفْفِيُّ: پراگندہ غبار۔
 الأَسْفِيُّ: مِنَ الخَيْلِ: پیشانی میں کم بال والا
 گھوڑا۔ مَوْنُث سَفْفِيَاءٌ ج سَفْفِيٌّ.
 المُسْفِيٌّ: جمل خور۔
 سَقِيَّتٌ: (س) سَقْبًا وَسَقْوًا. الدَّارُ:
 قریب ہونا۔
 أَسْقَبَتِ النَّاقَةُ: اکثر زچے چننا۔
 سَقَابَتِ: البُيُوتِ: قریب قریب ہونا۔
 السَّقْبُ: ج أَسْقَبٌ وَسَقَابٌ وَسَقْوُبٌ.
 سَقْبَانٌ: اونٹنی کا نوزائیدہ بچہ اور شل میں بولا
 جاتا ہے "أَذْلٌ مِنَ السَّقْبَانِ بَيْنَ
 الحَلَابِ" دودھ دینے والی اونٹنیوں کے
 درمیان نوزائیدہ بچوں سے زیادہ ذلیل.....

ج سَقْبَانٍ وَ(البَقِيَّةُ): خیمہ کا ڈنڈا۔
 السَّقْبُ: لمبی موٹی سرسبز شاخ۔ مَنَزِلٌ
 (سَقْبٌ): قریب منزل۔
 السَّقَابُ: فَا۔ قریب۔ دور (ضد)
 الجَسَقِبُ وَالجَسَقَابُ: نوزائیدہ اونٹ
 کے بچے کی ماں۔ الجَسَقَابُ: اکثر زچے
 چنے والی اونٹنی۔
 سَقَدٌ: (ض) سَقْدًا وَسَقْدًا وَأَسَقْدًا.
 الفَرَسُ: دہلا کرنا۔ چھریا کرنا۔
 السَّقْدَةُ: ج سَقْدَدٌ (السَّقْدَةُ) ج
 سَقِيدَاتٌ: سرخ رنگ کا ایک پرندہ جس کو
 فارسی میں زورک کہتے ہیں۔
 سَقْرَتُهُ: (ن) سَقْرًا. الشَّمْسُ: جھلنا۔
 أَسْقَرَتِ: النخلة: درخت خرما سے شیرہ
 بہنا۔
 السَّقْرُ: مِسْ۔ شکر۔ شیرہ۔
 سَقْرٌ: دوزخ کا علم (کلمہ غیر منصرف ہے)
 کہا جاتا ہے "جَسَاءٌ (بِأَسْقَرٍ) وَالسَّقْرُ
 وَبِنَاتٍ غَيْرُ" اس نے سفید جھوٹ کہا۔
 السَّقْرَةُ: سورج کی سخت تپش۔ ج سَقْرَاتٌ.
 السَّقَاوُورُ: گرمی۔ جانوروں کو داغنے کا لوبا۔
 السَّقَارُ: غیر مستحق کو بہت لعنت کرنے والا
 کافر۔ ج سَقَارَةٌ.
 سَقَطٌ: (ن) سَقُوطًا وَسَقَطًا: گرنا۔ کہا
 جاتا ہے "سَقَطَ مِنْ عَيْنِي" وہ میری
 آنکھوں سے گر گیا۔ یعنی حقیر ہو گیا۔ "سَقَطَ
 فِي السَّكَّامِ" غلطی کرنا..... السَّجْمُ: غائب
 ہونا..... السَّخْرُ: گرمی پڑنا..... السَّخْرُ عَنَّا: دور
 ہونا..... عَلِي ضَالِيهِ: موقع ازیت سے
 مطلع ہونا..... السَّقَوْمُ إِلَيَّ: نازل ہونا۔ اترنا
 الرَّوْلُدُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ: نکلنا۔ باہر آنا۔
 سَقَطَ فِي يَدِهِ: نادوم ہونا۔ کہتے ہیں "علی
 الخَبِيرِ سَقَطَتْ": حقیقت کار کے جاننے
 والے کے پاس تم پہنچے۔
 سَقَطَ وَأَسْقَطَ: فِي يَدِهِ: انفرش کرنا۔ غلطی
 کرنا۔ نادوم ہونا۔ حیران ہونا۔
 سَاقَطَةٌ سَقَاطًا وَمَسَاقَطَةٌ: گرانا یا بے پے

گرا تا..... ه السقطة: باری باری گفتگو کرنا
 الفرس الخيل: دوڑ میں سبقت کرنا
 الفرس العذو: گھوڑے کا ست دوڑنا۔
 اسقطه: گرا تا۔ اسقطت المرأة السقط: عورت کا ناتمام بچہ گرا تا..... له بالسكلام: گالی دینا۔ بے ہودہ بات کہنا..... السرجل: کسی کے ساتھ ایسی کارروائی کرنا جس سے وہ حقیر ہو جائے کہ کوئی غلطی کر بیٹھے یا جھوٹ بولے یا اپنے راز کو ظاہر کر دے۔ کہا جاتا ہے "ما اسقط في كلمة": اس نے کسی کلمہ میں غلطی نہیں کی۔
 تسقطه: لغزشوں کو ڈھونڈنا۔
 الخيز: تھوڑی تھوڑی خبر حاصل کرنا۔
 تساقط واساقط. الشئ: پے پے گرتا۔
 السقط: برف یا شبنم۔ ليم (.....) والسقط والسط (تاتمام بچہ جو وقت سے پہلے گر جائے۔ السقط: خیمہ کا گوشہ۔ پرندہ کا بازو۔ کہا جاتا ہے "زفع الطائر بسقطيه": پرندہ نے اپنے دونوں بازو اٹھائے۔ بادل کا کنارہ جو زمین پر گرتا ہوا دکھائی دے۔
 السقطه: زور سے گرتا۔ ٹھوکر۔ لغزش۔
 السقط: ناکارہ ہونے پر برکت چیز۔ ردی سامان۔ رسوائی۔ تحریر یا قول یا حساب کی غلطی۔ ج اسقاط۔
 الساقط: فا۔ فرد مایہ۔ کمینہ۔ ج اسقاط وسقاط مؤنث ساقطة۔
 الساقطة: کم عقل کمینہ۔ وہ پھل جو پکنے سے پہلے گر جائے۔ ج سواقط۔
 السقاط: مص۔ ساقط کی جمع۔ لغزش۔ وہ پھل جو پکنے سے پہلے گر جائے۔ پرندہ کا بازو۔ السقاط والسقطة: گرمی ہوئی چیز۔
 السقوط: گرا ہوا۔
 السقيط: بے وقوف۔ کم عقل۔ مؤنث سقيطة: برف۔ شبنم۔ بخ۔ اولد۔
 السقاط: بہت گرنے والا۔ بہت تیز تلوار جو مقطوع سے پہلے زمین پر گرے۔ (.....) والسقطي: ردی سامان بیچنے والا۔

کہاڑیا۔
 السقطة: بہت گرنے والی۔ سقطة الباب عند المؤلدين: دروازہ کی چوٹی۔
 المنسقط والمنسقط: گرنے کی جگہ۔ ج منسقط. منسقط راس الرجل: جائے پیدائش۔ المنسقط: پرندہ کا بازو۔
 المسقطة: گرنے کا سبب۔
 مسقطة. الاحبال: بڑی مصیبت۔ الام (المسقاط): ناتمام بچہ گرانے والی ماں۔
 سقعة: (ف) سقعا: کسی کو پھینچ مارنا۔ کسی کو سخت ست کہنا۔ کسی کے ساتھ برائی سے پیش آنا۔ سقع الديك: مرغ کا باگد دینا۔ کہا جاتا ہے "ما أذرى أين سقع": میں نہیں جانتا وہ کہاں گیا۔
 استقع: لونه: رنگ کا بدل جانا۔
 السقع: گھر۔ زمین کا گوشہ۔ ج اسقاع. السقاع: اوڑھنی کو تیل سے پچانے کا پھینچوا۔ برقع۔ اوٹنی کی ناک کو باندھنے کی چیز۔ (.....) والمنسقع: لغت ہے۔ صقاع ومضع: میں۔
 الاسقع: چیز یا کسی مانند ایک پرندہ جس کا سر سفید اور پر ہنبر ہوتے ہیں اور جو پانی کے قریب رہتا ہے۔ ج اسقاع: دشمنوں اور حاسدوں سے دور رہنے والا۔
 السوقعة: شریک کے اوپر کا حصہ..... من الرذاء او الخمار او المغامة: وہ حصہ جو سر سے متصل ہو اور جلدی سے میلا ہو جائے۔
 سقف: (ف ن) سقفا وسقف. البيت: چھت ڈالنا۔
 سقف: (ف ن) سقفي وسقف وتسقف: بپ بنانا۔
 أسقفه وسقفه: علیہم: بپ بنانا۔
 سقف: (س) سقفا: جھاڑ کے ساتھ لمبا ہونا۔ صفت (أسقف) مؤنث سقفاء: ج سقف. سقفت الرجل: پاؤں کا دائیں جانب کو جھکانا۔
 السقف: من البيت: چھت۔ ج سقوف:

آسمان۔
 السقيف: چھت۔ ج سقف وسقف۔
 السقيفة: چھت پائے کا پتھر یا تختہ۔ سونے یا چاندی کا لہا و ہار یک تار۔ اونٹ کی پہلی۔ ج سقائف: کہتے ہیں "هدم السفر سقائف البحر": سفر نے اونٹ کی پسلیوں کو توڑ دیا۔ السقيفة: ڈوبھی۔
 الاسقف: موٹی اور لمبی پڑیوں والا۔
 من الجمال: بے بال والا اونٹ۔
 من الظلمان: ٹیڑھی گردن والا شتر مرغ۔
 الاسقف: بپ پادری۔ جس کا درجہ تیسریں سے اونچا اور مطران سے کم ہوتا ہے۔ مطران: ج اساقفة وأساقف: (کلمہ یونانی ہے)
 الاسقفية: بپ کا درجہ۔ بپ کی رعیت۔
 بپ کی جانب منسوب۔
 المسقف: مفتح۔ لمبا۔
 سقلة: (ن) سقلا: بھیتل کرنا۔ آئینہ وغیرہ کو جلادینا۔
 سقل: (س) سقلا: البعير: کھر میں دہنی جانب کو کھینچنے والا ہونا۔
 السقل: کھر۔
 السقل: من الرجال: تہلی کھر والا مرد۔
 من الخيل: پیٹھ میں کم گوشت والا گھوڑا۔
 الاسقالة: اونچی جگہ پر پہنچنے کے لئے پاڑھ۔ ج اساقيل۔
 سقلبه: بچھاڑنا۔
 السقلب: علاۃ خزر کے باشندوں کی ایک جماعت جو بعد میں یورپ کے ملکوں میں پھیل گئی تھی۔ واحد (سقلبي) ج سقلبة۔
 سقم (س) وسقم (ک) سقما وسقما وسقاما وسقامة: بیمار ہونا یا دیر تک بیمار رہنا۔ صفت (سقم) ج سقام وسقما۔
 أسقمة وسقمة: بیمار ڈالنا۔ وأسقم الرجل: بیمار گھر والا ہونا۔
 السقم والسقم: ج أسقام (والسقام)

بیماری

السَّقِيمُ وَالسَّقِيمُ: بیمار۔ کَلَامٌ سَقِيمٌ: نام درست کلام۔ مَكَانٌ سَقِيمٌ: خوفناک جگہ۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ سَقِيمٌ الصَّدْرُ عَلٰی اَخِيهِ“ وہ اپنے بھائی سے کینہ رکھتا ہے۔

المِسْقَامُ: بکثرت بار رہنے والا۔

إِرْضٌ (مِسْقَمَةٌ): بہت بیماریوں والی زمین۔

السَّقْفُورُ: ایک جانور کا نام ہے۔

سَقِي (ض) سَقِيًا، الرَّجُلُ: پلانا۔ کسی سے ”سَقَاكَ اللَّهُ يَا سَقِيًا لَكَ“: کہنا۔ عیب لگانا۔ غیبت کرنا..... الثَّوْبُ: گہرا رنگنا۔

سَقَاهُ اللَّهُ الْغَيْثَ: بارش بھیجنا..... يَطْنُهُ: بیماری کی وجہ سے پیٹ میں پانی جمع ہونا۔

سَقِيَ: قَلْبُهُ عِدَاوَةً: دل کا دشمنی سے بھر پور ہونا..... يَطْنُهُ: بیماری کی وجہ سے پیٹ میں پانی جمع ہونا۔

سَقِيَ نَسْقِيَةَ الرَّجُلِ: بہت پلانا۔ کسی سے ”سَقِيًا لَكَ“ کہنا..... الثَّوْبُ: کپڑے کو بار بار رنگ میں ڈبوانا۔

أَسْقَى إِسْقَاءَ الرَّجُلِ: پانی پینے کے لئے دینا۔ پانی کی طرف رہنمائی کرنا۔ جانوروں کو یا زمین کو سیراب کرنا۔ کسی سے ”سَقَاكَ اللَّهُ“ یا ”سَقِيًا لَكَ“ کہنا۔ اسْقَاهُ اللَّهُ الْغَيْثَ: بارش بھیجنا۔ اسْقَى فَلَانًا: عیب لگانا۔ غیبت کرنا۔

سَقَاهُ وَتَسْقِيًا: ایک دوسرے کو پلانا۔ وَسَقَاهُ فِي أَرْضِهِ: کسی کو زمین کی دیکھ بھال کے لئے مقرر کرنا اس شرط پر کہ زمین کا کچھ نلہ ملے گا اور اسی سے شُرْكَةُ مُسَقَاةٍ: ہے۔

تَسْقَى تَسْقِيًا: سیراب ہونا۔ کہا جاتا ہے ”تَسْقَى الصَّبِيغُ“ اس نے رنگ کو جذب کر لیا۔

إِسْتَقَى اسْتِقَاءً وَاسْتَسْقَى:

إِسْتَقَاءً: مِنْهُ: کسی سے پانی طلب کرنا۔

اسْتَقَى: مِنْ النَّهْرِ: دریا سے پانی لینا۔

وَاسْتَسْقَى الرَّجُلُ: بیماری کی وجہ سے پیٹ و جسم میں پانی جمع ہونا۔ تَقَى: کرنا۔ اسْتَسْقَى الرَّجُلُ: کسی سے ”سَقَاكَ اللَّهُ يَا سَقِيًا لَكَ“ کہنا۔

السَّقِيُّ وَالسَّقِيُّ: وہ پانی جو مرض کی وجہ سے پیٹ میں جمع ہو جائے۔ السَّقِيُّ: سیراب کی ہوئی بھٹی یا زمین۔ پانی کا حصہ۔ کہا جاتا ہے ”كَمْ سَقِيٍّ أَرْضِكَ“: تمہاری زمین کیلئے پانی کا کتنا حصہ ہے۔ بادل۔ جِ اسْقِيَةَ۔

سَقِيًا وَسَقِيًا: لِفَلَانٍ: دعا کے موقع پر بولتے ہیں۔ تقدیر عبارت یہ ہے ”سَقَاهُ اللَّهُ سَقِيًا“ اللہ اس کو سیراب کرے۔

السَّقَاءُ: مَثَلٌ۔ جِ اسْقِيَةَ وَأَسْقِيَاتِ وَأَسَاقٍ:

السَّقَائِيَّةُ وَالسَّقَائِيَّةُ: پانی پلانے کی جگہ۔ پانی پینے کا برتن (..... وَالسَّقَائِيَّةُ) پانی جمع کرنے کی جگہ۔ حَوْضٌ۔

السَّاقِي: فَالْجِ سَقَاءٌ وَسَاقُونَ وَسَقَاءٌ وَسُقِيٌّ:

السَّاقِيَّةُ: السَّاقِي: کا مَوْنُثٌ: چھوٹی ندی۔ جِ سَوَاقٍ وَسَاقِيَاتِ:

السَّقِيَاءُ: السَّقِيُّ وَالْإِسْتِسْقَاءُ: کا اسم۔ السَّقِيُّ: دریاؤں کے پانی سے سیراب کیا ہوا۔ تیز بارش والا بادل۔ درخت خرما اور بردی۔ واحد (سَقِيَّةٌ)

السَّقَاءُ: بہت پلانے والا۔ مَوْنُثٌ سَقَاءَةٌ وَ سَقَائِيَّةٌ:

الْإِسْتِسْقَاءُ: پانی طلب کرنا..... عِنْدَ الشَّرْعِ: پانی طلب کرنے کے لئے نماز پڑھنا اور دعا کرنا..... عِنْدَ الْأَطِبَّاءِ: ایک بیماری کا نام۔

السَّقِيُّ: سیرابی کا وقت۔ السَّقِيُّ السَّقِيُّ: دریا کے پانی سے سیراب کی ہوئی بھٹی۔ (اور مَظْمَنَاتِي: بارش کے پانی سے سیراب کی ہوئی۔)

المِسْقَاةُ وَالْمِسْقَاةُ: پانی پلانے کی جگہ۔

سَكٌّ: (ن) سَكَا. السَّبَابُ: دروازہ

بند کرنا۔ دروازے میں لوہے کی ٹہنی لگانا..... السَّبَابُ: کنواں کھودنا..... أَدْنِيَهُ: کان کو چڑ سے اُکھیرنا..... السَّبَابُ مَا فِي بَطْنِهِ: تہنی تہنی بیٹ کرنا۔ کہا جاتا ہے ”مَا سَكَّ سَمْعِي“ مِثْلَ ذَلِكَ الْكَلَامِ“ اس جیسی گفتگو میرے کانوں میں نہیں پڑی ”وَإِسْنُ سَكِّكَ“ تو کہاں جاتا ہے۔

سَكٌّ: (س) سَكَّكَ: چھوٹے کانوں والا ہونا۔ صفت (أَسَكٌّ) مَوْنُثٌ سَكَّاءٌ جِ سَكٌّ: کہتے ہیں ”كُلُّ سَكَّاءٍ يَبُوضُ وَكُلُّ شَرْفَاءٍ وَلُودٌ“ ہر چھوٹے کان والی انڈے دیتی ہے اور ہر بڑے کان والی بچے جنتی ہے۔

إِسْكٌ إِسْكَاكًا. النَّبَاتُ: بھجان ہونا۔ إِسْكَتِ الْمَسَامِعُ: بہرا ہونا۔ الْبَيْتُ: بند جھری والا ہونا۔ کہا جاتا ہے ”مَا إِسْكٌ فِي مَسَامِعِي مِثْلَهُ“ میرے کانوں میں اس جیسی بات نہیں پڑی۔

السَّكُّ وَالسَّكُّ: جِ سَكَّكَ وَسَكَّوْكَ: تھک مٹنے کا کنواں۔ تھک حلقوں والی زرہ۔ بند راست۔ السَّكُّ: کیل۔

سیدھی و درست عمارت۔ السَّكُّ: بد طبیعتی۔ بچھو کا سوراخ۔ گزری۔ ایک قسم کی خوشبو۔ کہا جاتا ہے ”ضَرَبُوا أَيُّوْتَهُمْ سَكَاكًا“ انہوں نے اپنے مکانات ایک قطار میں بنائے۔

السَّكُّ: حصص۔ بہرا پن۔

السَّكَّاءُ: تھک حلقوں والی زرہ۔

السَّكَّةُ: سیدھا راستہ۔ تل کا پھار۔

السَّكَّةُ: درختوں کی قطار۔ سکہ ڈھالنے کا سانچہ۔ پیغام رساں کا گھر۔ جِ سَكَّكَ:

أَصْحَابُ السَّكِّكَ: وہ وظیفہ یاب پیغام رساں جو اہم امور کے لئے بھیجے جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے ”فَلَانٌ صَغْبُ السَّكَّةِ“ فلاں سب کی عقل کی وجہ سے ایک پرنہیں ٹھہرتا۔

السَّكِّيُّ: وینار۔ قاصد۔

السنکی: کیل۔

السُّكَاك: فضائے آسمانی۔ تیر میں پرکی جگہ۔

السُّكُوك: جگہ من والا کتواں۔

السُّكَاكَة: فضائے آسمانی۔ خود رائے چھوٹے کان والا۔

السُّكَاك: سکہ ساز۔

السُّكَاكَة: مسافرین۔

سُكِب (ن) سَكِبًا وَسَكِبَانًا. الْمَاءُ وَنَحْوَهُ: پانی وغیرہ بہانا۔ گرانہ۔

سُكِب (ن) سَكِبًا وَسَكِبًا. الْمَاءُ: پانی بہنا۔

تَسَاكَبَ: الذُّفْعُ: آنسو بہنا۔

السُّكْبُ: مِمَّنْ: لگا تار بارش۔ مِمَّنْ: الغَيْطِيلُ: تیز دوڑنے والا گھوڑا۔ مَاءً سَكَبَ: پینے والا پانی۔ أَمْرًا سَكَبَ: امر لازم۔

رَجُلٌ سَكَبَ: سبک روح چست و پھر تپلا مرد۔ (..... والسُّكْبُ): تانا بیا سیسہ۔

السُّكْبُ: ایک خوشبودار درخت۔ واحد (سُكْبَةٌ السُّكْبِيَّةُ): سرکی بھوسی۔

السُّكْبِيَّةُ: سَكَبَ: کا اسمِ مرفوعہ۔ کپڑے کا گول ٹکڑا جو سر کے لئے قطع کیا جائے۔

باریک جھلی جو جنین کے چہرے پر ہوتی ہے۔ السَّاكِبُ وَالسُّكُوبُ وَالسُّكَيْبُ وَالِاسْتُكُوبُ: پینے والا۔

الاسْتُكُوبُ: لگا تار بارش۔ مویچی۔ لوہار۔ درخت خرما کی ایک قطار..... مِمَّنْ السَّرْقُ: زمین کی جانب کوندنے والی بجلی۔

الاسْتُكَابُ: مویچی۔

الاسْتُكُونَةُ وَالِاسْتُكَاةُ: ککڑی کا ٹکڑا جس کو مٹک کے شکاف میں ڈال کر اس پر کچھ باندھ دیتے ہیں تاکہ اس میں سے کچھ نہ نکلے۔

الاسْتُكْبَةُ: چوکھٹ۔

السُّكْبِيَّةُ: بہانے یا پینے کی جگہ۔ ج مَسَاكِبُ.

السُّكْبَاك: سالن جو سرکہ گوشت اور

خوشبودار مصالح سے تیار کرتے ہیں۔

سَكَّتَ (ن) سَكَّتًا وَسَكَّتُونًا وَسَكَّتَانًا وَسَاكُوتَةً: چپ رہنا۔ مرنا..... الغَضْبُ: غصہ کا ٹھنڈا پڑنا..... الحَرُّ: ہوار کئے کے ساتھ گرمی تیز ہونا..... العُزْرَةُ: ٹھہرنا۔

سَكَّتَ: سکتہ لائق ہونا۔ صفت (سَكُوتٌ) أَسَكَّتَ: کلام منقطع ہونا..... عَنِ الشَّيْءِ: اعراض کرنا (اسْتَكْتَهَ وَسَكَّتَهُ): چپ کرنا۔

سَاكُتَةً فَسَكَّتَهُ: چپ رہنے میں مقابلہ کرنا اور غالب رہنا۔

السُّكْتَةُ: ایک مشہور بیماری کا نام جس میں سارے اعضاء بے حس و حرکت ہو جاتے ہیں۔ سَكَّتَ: کا اسم۔

السُّكْتَةُ: برتن میں باقی ماندہ۔ بچہ وغیرہ کو چپ کرانے کی چیز۔ سَكَّتَ: کا اسم۔

السُّكْتَةُ: بچہ وغیرہ کو چپ کرانے کی چیز۔ السُّكَاتُ: مِمَّنْ: ایک بیماری جو بولنے سے روک دیتی ہے۔ السُّكَاتُ مِنَ الْغَيْثَاتِ: وہ سانپ جو بے خبری میں ڈس لے۔ کہا جاتا ہے "هُوَ عَلِيُّ سَكَاتِ الْأَمْرِ": وہ کام کے پورا کرنے کے قریب ہے (..... والسُّكَاتَةُ) مِنَ الْجَوَابِ: خاموش کر دینے والا جواب۔ کہا جاتا ہے "رَمَاهُ بِسَكَاتِيهِ وَضَمَاتِهِ": اس نے اس کو خاموش کر دیا۔

السُّكَّتُ وَالسُّكُوتُ وَالسَّاكُوتُ وَالسَّاكُوتَةُ وَالسُّكَيْتُ وَالسُّكَيْتَةُ: بہت چپ رہنے والا۔ السُّكَيْتُ: گھڑ دوڑ کے میدان کا آخری گھوڑا۔

السُّكَاتُ: الْقَوْمُ: قوم کے ادب باش لوگ۔ الشَّيْءُ: جِيزٌ كَالْبَقِيَّةِ: گرمی کے آخر کے معتدل ایام۔

السُّكَّتُ: جِوئے کے کھیل کا آخری تیر۔ سَكَّرَ (ن) سَكَّرًا: الْإِنَاءُ: برتن بھرنا۔

السُّكَّرَانُ: دریا میں بند لگانا..... السَّبَابُ: دروازہ بند کرنا..... السُّكُورُ وَالسُّكْرَانُ: الرِّبْعُ: ہوا کا رگ جانا..... الحَرُّ: گرمی کا کم

ہو جانا۔ (.....) وَسَكَّرَ وَسَكَّرًا: نِگاہ دہندگی کا

ہونا۔ سَكَّرَ (س) سَكَّرًا: الْحَوْضُ: حوض کا بھر جانا۔

السُّكْرَانُ: السُّكْرَانُ: غَضْبَانٌ هُونًا (.....) سَكَّرًا وَسَكَّرًا وَسَكَّرًا: وَسَكَّرَانًا) مِنَ الشَّرَابِ: مست ہونا۔ مدھوش ہونا۔ صفت مذکر (سَكَّرٌ وَسَكْرَانَةٌ) و صفت مؤنث (سَكْرَةٌ وَسَكْرِيٌّ وَسَكْرَانَةٌ) ج سَكْرِيٌّ وَسَكْرِيٌّ وَسَكْرِيٌّ.

سَكْرَةٌ: گلا گھونٹنا..... السَّبَابُ: دروازہ بند کرنا۔

السُّكْرَهُ: الشَّرَابُ: مدھوش کرنا۔ مست کرنا۔

تَسَاكَّرَ: مَسْتَقًّ ظَاهِرٌ كَرَمًا: نشہ آور چیز استعمال کرنا۔

السُّكْرُ: شَرَابٌ: اور ہر نشہ آور چیز۔ سُرْكَةٌ: السُّكْرُ: دُورِيَا كَبِنْدُ: جس چیز سے دور یا کوبند کیا جائے۔ ج سَكُورٌ.

السُّكْرُ: مِمَّنْ: نشہ۔ مَسْتَقًّ: سَكْرَتُهُ: الْمُنُوتُ اَوِ الْهَمُّ: موت یا غم کی سختی۔ ج سَكْرَاتٌ.

السُّكْرَةُ: اِيكٌ قِسْمٌ كَادَانَهُ جِوِيْغِيْهٍوْنِ كَالْحَيْتِ مِيْنِ هُوْتَا هِيْ اُوْرِيْغِيْهٍوْنِ كَالْمَشَاةِ مِمَّا سِيْءٌ كَچھ چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے کھانے سے نیند بہت آتی ہے۔

السُّكْرُ: شَكْرٌ (سَكْرَةٌ) اِسْ سِيْءٌ هُوَ: السَّاكِبُ: قَا: لِيْلٌ سَاكِبٌ: بے ہوا والی رات۔ مَوْنُثٌ سَاكِبَةٌ.

السُّكْرَارُ: نَشَاءٌ وِرْجِيْزٍوْنِ كَابَانَانِيْ وَالْاُوْرُ بِيْجِيْءِ وَالْاِ-

السُّكْرِيْءُ وَالسُّكُورُ وَالْمَسْكِيْرُ: بہت نشے والا۔

السُّكْرَانُ: اِيكٌ قِسْمٌ كِيْ هَا سِيْ جِوِيْغِيْهٍ سِيْز رَهْتِيْ هِيْ اُوْر اِس كِيْ دَانَهُ كُو كَابَا جَاتَا هِيْ۔

السُّكْرُبَةُ وَالسُّكْرُبَةُ: چھوٹی پیالی۔

منزل۔ منساکن۔ المسكنة: فقیری۔ ذلت۔ کمزوری۔ المسكين: وہ شخص جس کے پاس کچھ نہ ہو یا وہ شخص جس کے پاس اتنا نہ ہو جو اس کے عیال کے لئے کافی ہو۔ ذلیل و مغلوب۔ ج مسكينون و مساكين: مؤنث مسكين و مسكينة۔ سَلُّ (ن) سَلًّا وَاِسْتَلَّ. الشَّيْءُ مِنَ الشَّيْءِ: کسی چیز میں سے آہستہ آہستہ نکالنا۔السَّيْفُ: تلوار سونگنا۔ کہا جاتا ہے "اِسْتَلَّ فُلَانٌ بِكَذَا" فلاں شخص فلاں چیز کو چپکے سے لے گیا۔ سَلُّ (ض) سَلًّا: گرے ہوئے دانتوں والا ہونا۔ صفت مذکر (سَلُّ): و صفت مؤنث (سَلَّةً) سَلُّ: سبیل کی بیماری میں مبتلا ہو کر دوبا ہونا۔ صفت (مَسْلُوبٌ) اَسْلَ اسْلَالًا: اللہ فلاں: سبیل کی بیماری میں مبتلا کرنا..... الشَّيْءُ: چپکے سے چرانا۔ تَسَلَّلٌ وَاِسْتَلَّ. مِنَ الزَّحَامِ: بھیڑ میں چپکے سے کھسک جانا۔ کہا جاتا ہے "اِنْسَلَّ قَيْدٌ الْفَرَسِ مِنْ يَدِهِ" اس کے ہاتھ سے گھوڑے کی رسی نکل گئی۔ السَّلُّ: مص۔ عطر فروشوں کا ڈبہ۔ ج سلال۔ السَّلُّ وَالسَّلُّ وَالسَّلُّ: لاغری سبیل کی بیماری۔ السَّلَّةُ: پوشیدہ چوری۔ سبیل کی بیماری۔ حوض کا نقص۔ نوکری عطر فروشوں کا ڈبہ۔ ج سلال: کہا جاتا ہے "اِتَّيْنَاهُمْ عِنْدَ السَّلَّةِ وَعِنْدَ السَّلَّةِ" یعنی ان کے پاس ہم تلوار کھینچنے کے وقت پینچے (سَلَّةُ: باج اسم مرۃ اور سَلَّةُ: باکس اسم نوع ہے) کو فرس سربیع السَّلَّةِ: تیز دوڑنے والا گھوڑا۔ السَّلِيلُ: کھینچا ہوا سوتا ہوا۔ ولد۔ کہا جاتا ہے "هُوَ سَلِيلُ الْاِحْتِرَامِ": وہ بزرگوں کی اولاد ہے۔ خالص شراب۔ حرام مغز۔	والا ہونا۔ (.....) سَكُنْنَا وَاِسْكُنِي الدَّارَ وَاِسْكُنِي الدَّارَ: اقامت کرنا۔ رہنا۔ صفت (ساکن) ج سگان و ساكنون۔ سَكُنْ (ن) سَكُونًا وَاِسْكُنْ (ك) سَكُونَةً: مسکین ہونا۔ سَكُنْ. الْمُتَحَرِّكُ: ٹھہرانا..... العَرُوفُ: جزم دینا۔ سَاكِنَةٌ. فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ: ساتھ بود و باش کرنا۔ اَسْكُنْ. الزَّجَلُ: مسکین ہونا..... ه: غریب و مسکین بنانا..... ه الدَّارُ: کسی کو بود و باش کرانا..... الْفَقْرُ فُلَانًا: بے حرکت بنانا۔ تَسْكُنْ وَتَمْسُكُنْ: مفلس و مسکین ہونا۔ تَسْكُنْ: مطمئن و صاحب وقار ہونا۔ (سکینہ سے ماخوذ ہے۔) تَسَاكُنُوا فِي الدَّارِ: باہم مل کر رہنا۔ اِسْتَاكَنَ اِسْتِكَانَةً وَاِسْتَكُنَّ: ذلیل و عاجز ہونا۔ السُّكُنُ: گھر والے۔ گھر۔ السُّكُنُ: آگ۔ رحمت۔ برکت۔ ہر وہ چیز جس سے انس حاصل کیا جائے۔ الاَسْكَانُ کا واحد یعنی غذا و خوراک (.....) و السُّكُنِي: رہنے والا۔ رہنے کی جگہ۔ السُّكِينَةُ: سر اور گردن کے اتصال کی جگہ۔ ج سَكِينَاتٌ اور کہا جاتا ہے "اَسْرَ كَتْمُهُمْ عَلَيَّ سَكِينَاتِهِمْ" میں نے ان کو ان کی حالت سابقہ پر چھوڑ دیا۔ السُّكِينَةُ: وقار۔ اطمینان۔ بیت۔ السُّكِينُ: ہلکا چمکا تیز رفتار گدھا۔ السُّكِينَةُ: گدگی۔ السُّكُونُ: عدم حرکت۔ آرام۔ جزم۔ السُّكَّانُ. مِنَ السُّفِينَةِ: پتوار۔ ج سگانات۔ السُّكَيْنُ: چھری۔ ج سگابکین۔ و (السُّكَّانُ) چھری بنانے والا۔ السُّكِينَةُ: چھری۔ اطمینان۔ وقار۔ السُّكِينُ وَالْمَسْكِنُ: گھر۔ مکان۔	سَكَنَ وَاِسْكَنَ (ف س) سَكَنًا وَاِسْكَنًا: لا علمی میں پھرنا۔ کہا جاتا ہے "مَا اَذْرَى اَيْنَ سَكَنَ" میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں گیا۔ تَسَكَّنَ. فِي اَمْرِهِ اَوْ سَيَرِهِ: حیران پھرنا۔ مدت تک باطل میں رہنا..... الظُّلْمَةُ: اندھیرے میں ٹاپک ٹونیاں مارنا۔ السَّايِعُ: فا۔ (.....) و السَّايِعُ: مرد و مسافر اجنبی۔ زَجَلٌ (سَكَنٌ): پتھر مرد۔ السُّكَنُ: ایک قسم کی نباتات۔ السُّكِنَةُ: وہ معاملہ جس میں کوئی تدبیر بھائی نہ دے۔ اَرْضٌ (مُسْجِعَةٌ): بغیر کسی علامت و نشان کے زمین۔ سَكِفٌ (س) سَكْفًا. الْبَابُ: دروازے میں چوکھٹ لگانا۔ تَسَكَّفٌ. الْبَابُ: چوکھٹ پر قدم رکھنا۔ اَسْكَفٌ: موچی بنا۔ السَّايِكُ: فا۔ دروازہ کے اوپر والی لکڑی جو دہلیز کے مقابل ہوتی ہے۔ الْاَسْكُفُ. مِنَ الْعَيْنِ: پلکوں کے آگے کی جگہ یا نیچا پوٹا۔ کہا جاتا ہے "وَقَفَّتِ الدَّمْعَةُ عَلَيَّ اَسْكُفَ عَيْنِي": آنسو اس کی آنکھوں میں پلک آگے کی جگہ ٹھہر گیا۔ الْاَسْكُفَةُ وَالْاَسْكُوفَةُ: دہلیز۔ الْاَسْكُفُ وَالْاَسْكُوفُ وَالْاَسْكُفُ وَالْاَسْكُوفُ: موچی۔ (وَالْبِكَاغَةُ) موچی کا پیشہ۔ اَلْسُّكُولَانِيَّةُ: دینی تعلیم جس کی بنیاد یونانی فلسفہ ہو۔ سَكَمٌ (ن) سَكَمًا: کمزوری سے چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا۔ صفت (سَكِمٌ) الْاَسْكِيمُ: راہب کا کپڑا یا راہب کا سر پر ڈالنے کا کپڑا۔ (کلمہ عرب ہے) سَكَنَ (ن) سَكُونًا: ٹھہرنا..... اَلَيْهِ اَرَامٌ لِيْنَا..... غَنَةُ الْوَجْعِ: درد کا دور ہونا..... السَّحْرُفُ: بغیر حرکت کے ہونا۔ جزم۔
---	---	--

کوبان۔ وادی میں پانی بہنے کی جگہ۔
گھوڑے کا مفر۔ پچھرا۔ ج سُلان۔

السِّلْبَةُ: بیٹی۔ پیچھے کے گوشت کا لمبا ٹکڑا۔
ایک قسم کی لمبی جھلی۔

السَّلَاةُ: کسی چیز سے نکالا ہوا۔ خلاصہ نسل و
ولد۔ کہا جاتا ہے "هُوَ سَلَاةٌ طَيِّبَةٌ وَمِنْ
سَلَاةٍ طَيِّبَةٍ"۔

السَّالُ: فا۔ چور۔ وادی میں پانی بہنے کی تنگ
جگہ۔ ج سُلان و سَوَالُ۔

السَّلَالُ: ٹوکری بنانے والا۔ چور۔
الاسَلُ: چور۔

السِّلَّةُ: سو جا۔ ج سِلَات و مِسَالُ
مِسَلَةُ فِرْعَوْنَ: لمبا ریح ستون جو فرعون
مصر کی یادگار ہیں۔

السُّسْلِيَّةُ: علم حساب مقرر کا عدد مسلسل
اعداد کا مجموعہ جب کہ بعد والا عدد گنا کیا
جائے تو پہلے برابر ہوگا ایک زائد ہوگا۔ جیسے
۳۱۰۲۱۵۲۱۰۳۱۔

السُّسْلِيَّةُ السُّسْلِيَّةُ: وہ جس کے حدود
کے عدد انتہا نہ ہو اور اس حدود کے مجموعہ پر
غور کیا جائے گا جب مجموعہ ختم والا ہوگا تو اس
کا نام سلسلہ متقارہ بولا جائے گا۔ وگرنہ
سلسلہ دور والا ہوگا۔

سَلَا (ف) سَلَا وَاِسْتَلَا: السَّمْنُ: سبھی
صاف کرنا۔ سَلَا البَيْسِمِ: تل سے تیل
نکالنا۔ کہا جاتا ہے "سَلَاةٌ مَاءٌ سَوِطٌ": اس
نے اس کو سو کوڑے مارے۔ سَلَا الجَذْعُ:
شعرے کاٹنے دور کرنا۔

السِّلَاءُ: سَلَاءُ: کا اسم۔ صاف کیا ہو گئی۔
ج اَسْلَيْتُ۔

السَّلَاءُ: کھجور کے درخت کا کاٹنا۔
واحد (سَلَاةٌ) درخت خرما کے کاٹنے کی مانند
تیر کا پھل۔ ایک قسم کا پرندہ۔

سَلَبَ (ن) سَلَبًا وَسَلَبًا: الشَّىْ: زبردستی
چھیننا..... القَضْبَةُ او الشَّجْرَةُ: چھیلنا.....

السِّيْفُ: تلوار نکلی کرنا۔ صفت (سَالِبٌ) ج
سَلَابٌ وَسَالِيُونٌ مَوْنَتْ مَالِيَةٌ ج

سَالِبَاتٌ وَسَوَالِبٌ (.....) وَاسْتَلَبَهُ قُوْنَهُ
: کپڑے کو چھین لینا۔

سَلَبَ (س) سَلَبًا: ماتم کے کپڑے پہننا۔
اَسَلَبْتُ: الشَّجْرَةَ: بے تپے یا پھل گر جانا۔

(.....) وَسَلَبْتُ: الشَّاقَّةُ او العُرَاةُ: مرے
ہوئے بچے والی ہونا یا تمام بچہ گراننا۔ صفت
(سَلِيْبٌ وَسَلُوْبٌ) ج سَلْبٌ وَسَلَابٌ
(وَسَالِبٌ وَمُسَلِبٌ وَمُسَلَبٌ وَمُسَلَبَةٌ)
اِنْسَلَبَ: بہت تیز چلنا (اس کو عموماً ناقہ کے
لئے استعمال کیا جاتا ہے۔)

السَّلْبُ: بمص۔ ہلکی تیز چال۔ قَرْمٌ سَلْبٌ
القَوَائِمُ: تیلی ٹانگوں والا گھوڑا۔

السَّلْبُ: چھینی ہوئی چیز۔ تم کہتے ہو "اَخَذْتُ
سَلْبَ القَيْلِ" اس نے مقتول کے سامان کو
لیا۔ ج اَسْلَابٌ: لمبا درخت..... الدَّبِيْحَةُ
:..... ذبح شدہ جانور کا چمڑا یا پتھر اور پیٹ۔

..... وَمِنْ القَضْبَةِ: زنگل کا چھلکا۔ السَّلْبُ:
درخت کا ریشہ یا چھلکا جس سے رسیاں بنائی
جاتی ہیں۔

السُّلْبَةُ: بیروت میں پیدا ہونے والا پودا
جس کے پتے ذرہ جیسے اور پھول خود جیسے ان
کو بطور سلا دکھاتے ہیں۔

السَّلْبُ: لہا۔ ہلکا۔
السُّلْبَةُ: برنگی۔

السَّلَابُ: بہت چھیننے والا۔ رسیوں کے لئے
درخت سے ریشے نکالنے والا۔

السَّلَابِيَّةُ وَالسَّلْبُوْتُ: بہت چھیننے کا عادی
(یہ مذکر و مؤنث دونوں کے لئے ہے۔)

السَّلَابُ: ماتمی سیاہ لباس۔ کہتے ہو
"لَيْسَتْ السُّكْلِيَّةُ السَّلَابُ" گم کردہ

فرزندہ عورت نے ماتمی لباس پہنا۔ ج
سَلْبٌ۔

السَّلْبُ: بل کا ہتھا۔
السَّلِيْبُ: عقل یا مال کھویا ہوا۔ شَجْرَةُ

سَلِيْبٌ: درخت جس کی شاخیں اور پتے دور
کردیے گئے ہوں۔ ج سَلِيْبِي۔

الاسْلُوْبُ: طریقہ۔ راستہ۔ روش۔ ج

اَسَالِبُ: الاسْلُوْسُبُ: ناک کی بلندی اور
اسی سے ہے "اَنفُسُهُ فِى اسْلُوْبٍ" اس کی
ناک دائیں بائیں نہیں ہوتی۔ مشکبر و مغرور
کے لئے کہا جاتا ہے۔

سَلَتَ (ض ن) سَلْتًا: المعنى: آنتوں کو
ہاتھ سے نکالنا..... الشَّعْرُ او الرِّاسُ: بال یا
سر موٹنا..... المَرْأَةُ البِخْصَابُ: عُنْ يَدِيهَا

:..... چمڑا دینا۔ اتار دینا..... الشَّىْ: کاٹنا۔
.....: کوڑے مارنا جیسے "سَلَتُهُ مِائَةً

سَوِطٌ" اس نے اس کو سو کوڑے مارے.....
بِسَلْحِهِ: بیٹ کرنا..... (وَأَسَلْتُ)

القَضْبَةَ: پیالہ کو انگلی سے چاٹنا۔
اِنْسَلْتُ: چپکے سے خبری میں نکل جانا۔

السُّلْتُ: جو یا بفر چھلکے کا جو۔
شَيْلَمُ: یورپی گندم جس کی روٹی زرد دیکتی

ہے۔
السَّلَاةُ: وہ چیز جو دور کی جائے یا نکالی

جائے۔ پیالہ کو صاف کرنے کے لئے انگلی
سے جو چاٹا جائے۔ کہا جاتا ہے "ذَهَبَ مِني

فَلْتَةٌ (وَسَلْتَةٌ): وہ مجھ سے آگے بڑھ گیا۔
الاسْلَتُ: وہ شخص جس کی پوری ناک کٹ گئی

ہو۔ مَوْنَتْ سَلْتَاءُ ج سَلْتُ: اِمْرَاةٌ
سَلْتَاءُ: مہندی نہ لگانے والی عورت۔

المَسْلُوْتُ: مفتح۔ سر موٹا ہوا۔ جس سے
گوشت علیحدہ کر دیا گیا ہو۔

السَّلِيْمُ: بلا۔ سختی۔ بھوت۔ سخت قحط سالی۔
بہت بوڑھا اونٹ۔ تھوڑی اور حقیر چیز۔ کہا

جاتا ہے "فَمَا اَصَابَ مِنْهُ سَلِيْمًا" اس نے
اس سے کچھ نہیں پایا۔

سَلِيْجٌ (س) سَلَجًا وَسَلَجَانًا: اللَّقْمَةُ
: القمہ لگانا..... (وَسَلَجَتْ (ن) سَلُوْجًا)

اِلَابِلُ: سَلَجٌ گھاس کے چرنے سے پیٹ
چلنا۔ سَلَجُ الفَصِيْلُ: ناقہ: دودھ پینا۔

تَسَلَجُ: الطَّعَامُ: آسانی سے لگانا۔
(.....) وَاسْتَلَجَ: الشَّرَابُ: ڈگ ڈگاکے

پینا۔
السَّلَجُ: بمص۔ عطیہ۔

السَّلْحَةُ: سمندر کی پتی۔ ج سَلْحَج۔

السَّلْحُ: ایک قسم کی گھاس جس کو اونٹ چرتا ہے۔ ج سَلْحَانِج۔

السَّلْبَانُ: حلق۔

السَّلْبِجُ: مِنَ الْأَكْلِ: لَذِيذٌ كَمَا جَوَّ آسَانِي
سے نکلا جائے۔

السَّلْخَلَجُ وَالسَّلْخَلِجُ: مِنَ الطَّعَامِ: خَوْشُ
مَزَّةٍ خَوْرَاك۔

السَّلْجَمُ: شَلْجَمٌ۔ گھسی داڑھی لےے جڑوں
والا سر۔ بہت پانی والا پرانا کنواں
(..... وَالسَّلْجَمُ): لَمَّا كُنُوْا يَأْتِيهِمْ
يَا لَمَّا آدَى۔ بُوْرْهَا اُوْنْتُ۔ ج سَلْجَمُ۔

سَلْحُ (ف) سَلْحَا: بِيْثُ كَرْنَا۔ پاخاند
کرنا۔ (یہ پرندہ اور چوپائے کے لئے خاص
ہے۔ انسان کے لئے اس کا استعمال مجازاً
ہے۔)

سَلْحَةُ: ہتھیار پہنانا..... ه: السَّيْفُ
وَبِالسَّيْفِ: کبھی کو تلووار باندھنا
(..... وَأَسْلَحَهُ): ہتھیار بند بنانا۔

تَسَلَّحٌ: ہتھیار بند ہونا۔

السَّلْحُ: مِصْر۔ پتلا پاخاند۔ ج سَلْوَحُ
وَسَلْحَانُ۔

السَّلْحُ: ایک قسم کا شیرہ ہے جس کو گھٹی کی
مشک پر ملتے ہیں۔

السَّلْحُ: تالابوں میں بارش کا پانی۔

السَّلْحُ: ج سَلْحَانُ و (السَّلْحَةُ): چکور کا
بچہ۔

السَّلْحُ وَالسَّلْحَانُ: ہتھیار۔

السَّلْحُ: فَا۔ ہتھیار بند (فاعل ذیکذا ہے۔
مثل قَاتِمٍ وَلَا بِنِ كَسْ۔)

السَّلْحُ: ہتھیار (مذکر و مؤنث) ج
أَسْلَحَةٌ وَسَلْحٌ وَسَلْحَانُ۔

السَّلْحُ سَرَّارٌ: ہتھیار بند۔ ج
سَلْحَانِيَّةٌ (کلمہ فارسی ہے سلاح اور دار
سے مرکب ہے۔)

السَّلْحُ: پاخاند۔ اسمال۔

السَّلْحُ: قاصد۔ پیغمبر (سربانیہ)

السَّلْحَةُ: بِيْزْرِيْنُ۔ (دید بانی کی جگہ) ج
مَسَالِحٌ: ہتھیار بند لوگ۔

سَلْحَبٌ: اسْلَحَبُ الطَّرِيقِ: راستہ کا
سیدھا واضح دراز ہونا۔ صفت (مُسْلِحِبٌ)

السَّلْحُوْتُ: بے پاک عورت۔

السَّلْحَفَةُ وَالسَّلْحَفَةُ وَالسَّلْحَفَاءُ
وَالسَّلْحَفِيُّ وَالسَّلْحَفِيَّةُ: کچھو ج

سَلْحَفٌ (نر کو غنیمت کہا جاتا ہے)

سَلْحُ (ف ص) سَلْحَا: الخَرْوْفُ: بکری
کے بچے کی کھال اتارنا..... الصَّرْوَةُ دِرْعُهَا

بعورت کا ٹیص اتارنا..... الحَيَّةُ: سانپ کا
کینچل سے نکلنا..... اللَّيْلَةُ النَّهَارُ مِنَ اللَّيْلِ

: دن کو رات سے علیحدہ کرنا۔ جدا کرنا
..... الشَّهْرُ: مہینہ ختم ہونا..... السَّرْجُلُ

الشَّهْرُ: آخر تک گزارنا۔
سَلْحُ: الخَرْجُ جِلْدُهُ: گرمی کا کھال کو اتار

دینا۔

إِنْسَلَخَ: مِنَ قِيَابِهِ: نِزَاكًا هُوْنَا..... الشَّهْرُ مِنَ
سَنَةٍ: گزارنا..... النَّهَارُ مِنَ اللَّيْلِ: علیحدہ

ہونا..... الحَيَّةُ مِنَ قَشْرِهَا: سانپ کا کینچل
سے نکل جانا۔

تَسَلَّخَ: جِلْدُهُ: کھال کا اتر جانا۔

إِسْلَخَ اسْلَخَا: الرَّجُلُ: پہلو پر لیٹنا۔
سَلْحُ: الشَّهْرُ (مُسْلَخُهُ): مہینے کا آخری

دن (سَلْحُ الحَيَّةِ) و سَلْحُهَا و سَلْحُهَا):
سانپ کی کینچل۔ السَّلْحُ: جانور کی اتری

ہوئی کھال۔

السَّلْحُ: دھاگا جو تکلہ کے اوپر ہو۔

السَّلْحُ: جس کی کھال اتار لی گئی ہو۔ کہا
جاتا ہے شَيْءٌ سَلْحٌ مَلْبِيْعٌ: بے مزہ چیز۔

السَّلْحَةُ: فِي الشَّيْءِ: بے مزہ ہونا۔

السَّلْحَةُ: فَرْزَنْدُ بَانٍ كَيْسَلٍ كَاثِلٍ: گاڑھا
ہونے سے پہلے..... مِنَ شَجَرِ الرِّمْتِ

وَنَحْوَهُ: خشک لکڑی جس پر پتے وغیرہ کچھنہ
ہوں۔

السَّلْحُ: فَا۔ اونٹوں کی کھچلی۔ سَلْحُ
: کالے سانپ کے لئے صفت ہے اس لئے

کہ وہ ہر سال کینچلی چھوڑ دیتا ہے۔ مادہ
سانپ کو (أَسْوَدَةٌ): کہتے ہیں اس کی صفت
سَلْحَةُ: نہیں آتی اور صفت کے موقع پر
سَلْحُ کا مشنی بھی نہیں آتا۔ بلکہ کہا جاتا ہے
أَسْوَدُ سَلْحٍ وَأَسْوَدَانُ سَلْحٍ: اور جمع کے
لئے أَسْوَدُ سَلْحَةٍ وَسَوَالِحُ وَسَلْحُ
وَسَلْحَةٌ۔

الْأَسْلَخُ: پیشانی پر گنجا۔ گھرا سرخ۔

السَّلَاخُ: بہت کھال اتارنے والا۔

السَّلْحُ: کھال اتارنے کی جگہ۔

الْمِسْلَاخُ: کینچل۔ کھال..... مِنَ النَّخْلِ
: جس سے کچی بھجوریں گر جائیں۔

السَّلْوَرُ: سمندر کی ایک کچھلی۔

السَّلْسُ (س) سَلْسًا: النَّخْلَةُ: درخت
خرما کی شاخ کی جڑوں کا گر جانا۔

صفت (سَلْسٌ) اور اگر یہ بار بار ہوتا ہوتا ایسے
درخت کو (مِسْلَاسٌ) کہتے ہیں۔

الْحَشِيَّةُ: بکڑی کا بوسیدہ ہونا۔

سَلْسٌ (س) سَلْسًا وَسَلْسًا وَسَلْسًا: کسی کی
آسانی سے تابع ہونا۔ صفت (سَلْسٌ)

وَسَلْسٌ): کہا جاتا ہے "سَلْسٌ بِحَقِيْقَةٍ" اس
نے آسانی سے میرے حق کو دے دیا۔

سَلْسٌ سَلْسًا وَسَلْسًا وَسَلْسًا: کسی کی
عمل کا زائل ہونا۔ صفت (مَسْلُوسٌ)

سَلْسٌ: الخَلِيْقَةُ: زیور کو جو ہرے مزین و
آراستہ کرنا۔

أَسْلَسْتُ: النَّخْلَةُ: درخت خرما کی شاخ کی
جڑوں کا گر جانا۔ أَسْلَسَ قِيَادَهُ: نرم اور

آسان بنانا۔

تَسَلَّسَ: الشَّيْءُ: نکلنا۔

السَّلْسُ: مِصْر۔ خرمہرہ وغیرہ پروانے کا
دھاگا۔ کان کی بانی۔ ج سَلْسُوسٌ. السَّلْسُوسُ

: اوڑھنیاں۔

السَّلْسُ: مِصْر۔ نرمی۔ تابعداری۔ پیشاب
کا نہر کرنا۔

السَّلْسُ: آسان۔ نرم تا بعدار۔ مِسْمَارٌ
سَلْسٌ: مٹنے والی بیخ۔ شَرَابٌ سَلْسٌ

آسانی سے حلق میں اترنے والی شراب۔
 کہا جاتا ہے "هُوَ سَلْسُ الْيَوْلِ" اسے
 پیشاب کو روکنے کی طاقت نہیں۔
 السَّلْسِيلُ: نرم۔ ج سلاسیب
 وسَلْسَائِيْب: مؤنث سَلْسَيْلَةٌ: ج
 سَلْسِيْلَاتٍ: شراب۔ خوشگوار آسانی سے
 حلق سے اترنے والا پانی۔ جنت کے ایک
 چشمہ کا نام۔
 سَلْسَلٌ سَلْسَلَةٌ: الشَّيْءُ بِالسَّلْسِ: ایک کو
 دوسرے سے جوڑنا اور اسی سے ہے
 "سَلْسَلٌ فَلَاتًا إِلَى فَلَانٍ" اس نے فلاں کی
 نسبت فلاں کی جانب کی..... المَاءُ: پانی کو
 پست زمین میں بہانا اور کہا جاتا ہے "مَا
 سَلْسَلُ طَعَامًا" اس نے کھانا نہیں کھایا۔
 تَسَلْسَلُ: المَاءُ: پانی کا پست زمین میں بہنا
 الْقَوْبُ: کپڑے کا پینے سے پتلا پڑنا.....
 فَرَنْدُ السَّيْفِ: تلوار کے جوہر کا چمکانا۔
 السَّلْسَلُ وَالسَّلْسَالُ وَالسَّلْسَالِيسُ
 خوشگوار پانی۔ آسانی سے حلق سے نیچے
 اترنے والی عمدہ شراب۔
 السَّلْسَلَةُ: مصل۔ کوہان کا لمبا ٹکڑا۔
 السَّلْسَيْلَةُ: زنجیر۔ کوہان کا لمبا ٹکڑا۔ ج
 سلاسیل البروقی: چوڑائی میں کوندنے والی
 بجلی۔ سلاسیل الجصاب: کتاب کی
 سطریں۔
 السَّلْسَلُ: مِنَ الْيَتَابِ: دجاری وار کپڑا۔
 شَعْرٌ مَسْلَسٌ: ٹھنکریا لے ہال۔ سیف
 مَسْلَسٌ: چمکدار تلوار..... وَالْمَسْلَسِيْلُ
 مِنَ الْيَتَابِ: خراب بنا ہوا کپڑا یا بوسیدہ
 کپڑا۔
 سَلِطٌ (س) وَسَلَطٌ (ک) سَلَاطَةٌ
 وَسَلُوْطَةٌ: زبان دراز ہونا۔
 سَلْطَةٌ عَلَيْهِ: کسی پر غالب بنانا۔ قدرت
 دینا۔ قابض بنانا۔
 تَسَلَطَ عَلَيْهِ: کسی پر غالب ہونا۔ قادر
 ہونا۔ قابض ہونا۔
 السَّلْطُ: سخت۔ زبان دراز۔ لمبی زبان۔

السَّلِطُ: تیر کا پھل جس کے بیج میں ابھارند
 ہو۔ ج سبلاط۔
 السَّلْطُ: لمبی ٹانگیں۔
 السَّلْطَةُ: ملکیت۔ قدرت۔
 السَّلْطَةُ: باریک لمبا تیر۔ گھاس بھوسہ
 باندھنے کا کپڑا۔ ج سبلاط۔
 السَّلِطُ: سخت۔ ہر چیز میں سے تیز۔ عمدہ
 زیتون کا تیل۔ ہر قسم کے دانہ کا تیل۔ لِسَانُ
 سَلِيطٌ: لمبی زبان۔ رَجُلٌ سَلِيطٌ: زبان
 دراز مرد۔ السَّلِيطُ: بیج زبان آور (یہ
 صفت مرد کے لئے باعث مدح اور عورت
 کے لئے باعث مذمت ہے) اِمْرَأَةٌ
 سَلِيطَةٌ: زبان دراز اور بد زبان عورت۔
 اِمْرَأَةٌ (سَلْطَانَةُ اللِّسَانِ وَبِلْطَانَتُهُ): تیز
 زبان و زبان دراز عورت۔
 السَّلْطِيَّةُ: توسیع پسندی۔ استعماری
 سیاست۔
 السَّلْطَانُ: حجت۔ تم کہتے ہو "لَهُ سُلْطَانٌ
 مُّبِينٌ" اس کے لئے روشن حجت ہے۔ قبضہ
 قدرت۔ بادشاہ۔ ج سلاطین۔
 سَلْطَنَةٌ سَلْطَنَةٌ: بادشاہ بنانا۔
 تَسَلَطَنَ: بادشاہ بننا۔
 السَّلْطَاطُ: کبھی کا دندانہ۔ ج مَسَالِيطُ۔
 رَجُلٌ مَسْلُوْطٌ: اللّٰحِيَةُ: سبک رخسار مرد۔
 اِسْتَنْطَعَ: الوَادِي: وادی کا وسیع ہونا۔
 الرَّجُلُ: منہ کے بل گرنا یا چت گرنا۔
 الشَّيْءُ: لمبی چوڑی ہونا۔
 السَّلَاطِحُ: چوڑا۔
 السَّلْطَحُ: چمکانا پھاڑا۔
 السَّلَنْطَحُ وَالْمَسْلَنْطَحُ: کشادہ نضا۔
 اِسْتَنْطَعَ: الرَّجُلُ: چت لیٹنا۔
 السَّلْطُوْعُ: چمکانا پھاڑا۔
 السَّلَنْطَعُ: پاگل کی طرح گفتگو میں جہالت
 کرنے والا۔ (..... وَالسَّلَيْطَاعُ) لمبا مرد۔
 سَلَعٌ (ف) سَلَعًا: الرَّاسُ: سر پھاڑنا۔
 جِلْدَةٌ بِالنَّارِ: کھال کو جلا کر داغ دار
 کرنا۔

سَلِيعٌ (س) سَلَعًا: الرَّجُلُ: برص والا
 ہونا۔
 قَدَمُهُ: قدم کا پھینا۔
 اَسْلَعُ: پھینے ہوئے سرو والا ہونا۔ جسم میں زخم
 والا ہونا۔
 سَلَعُهُ: پھاڑنا۔
 تَسْلَعُ عَقْبَهُ: ایزدی کا پھینا۔
 اِنْسَلَعُ: پھینا۔
 السَّلْعُ: مصل۔ پیر کی بوائی۔ ج سَلْوَعُ:۔
 واحد (سَلْعَةٌ) (..... وَالسَّلْعُ): مثل ہم عمر۔
 کہا جاتا ہے "هَذَا بِلْعٌ ذَاكُ" یہ اس کے
 مثل ہے و "غَلَامَانِ سَلْعَانِ" دو ہم عمر لڑکے
 اور اریابی غَلْمَانِ اَسْلَاعُ..... فَبِي الْعَجَلِ
 دَرَاثُ: ج اَسْلَاعُ وَسَلْوَعُ۔
 السَّلْعُ: مصل۔ ایک کڑوا درخت۔ ایک
 بد مزہ ہبزی۔ ایک قسم کا ایلو۔ جلد میں چلنے کا
 داغ۔
 السَّلْعَةُ وَالسَّلْعَةُ: زخم جو جلد کو پھاڑ دے۔
 ج سَلْعَاتُ وَبِیْلَاعُ۔
 السَّلْعَةُ: سامان و سامان تجارت۔ ج بِلْعُ
 (..... وَالسَّلْعَةُ وَالسَّلْعَةُ وَالسَّلْعَةُ): بدن
 کا پھوڑا یا گوشت اور کھال کے درمیان غدود
 جیسی زیادتی۔ جو تک۔
 الاَسْلَعُ: برص کی بیماری والا۔ کپڑا۔ مصلے
 ہوئے پیر والا۔ کھال میں چلنے کا داغ۔
 مَوْثُ سَلْعَاءُ: ج سَلْعُ۔
 السَّلْوَعُ: کڑوا ایلو۔ کہا جاتا ہے "هُوَ اَمْرٌ
 مِّنَ السَّلْوَعِ" وہ ایلو سے زیادہ کڑوا
 ہے۔
 السَّلِيْعَةُ: طبیعت۔ کہا جاتا ہے "اِنَّهُ لَكَرِيْمٌ
 السَّلِيْعَةُ" وہ شریف طبیعت ہے۔
 السَّلْعُ: رہبر و رہنما۔
 السَّلْوَعُ: جسم پر پھوڑے والا یا غدود جیسی
 زیادتی والا۔
 السَّلْوَعَةُ: واضح راستہ۔
 سَمٌّ مَسْلَعٌ: بہت تیز زہر۔
 السَّلْعَفُ: سخت۔

السَّلْعَام: كشاده حلق والا۔ بڑے پیٹ والا۔ لمبی ناک والا۔ بھیڑیا۔ أَبُو سَلْعَامَةَ: بھیڑیے کی کنیت ہے۔

سَلْعَن: فی غَدْوہ: تیز دوڑنا۔

سَلْع (ف) سَلْعًا: زانہ: کسی کے سر کو پکھل دینا۔

سَلَعَتْ (ف) سَلُوْعًا الْبَقْرَةَ اَوِ الشَّاةَ: گائے یا بکری کے کچلی کے دانت نکلنا۔ صفت (سَالَع)

الاسْلَع: گہرا سرخ۔ مرض برص والا۔ لَيْسَمٌ مِنَ اللَّحْمِ: کچا گوشت۔ سَلْعَفَةٌ: ٹھکانا۔

سَلَقَ (ن) سَلَقًا: الارْضُ: زمین کو زراعت کے لئے پیٹنے سے ہموار کرنا۔

المَزَادَةُ: توشدان پر تھل مانا۔

سَلَفَ (ن) سَلَفًا وَسَلُوْفًا: گزرتا۔ آگے ہونا۔ تم کہتے ہو "سَلَفَ لَعْمَلٌ صَالِحٌ" اس سے عمل صالح کا صدور پہلے ہوا۔

و "سَلَفَ الْقَوْمُ" وہ قوم سے آگے ہو گیا۔

سَلَفَهُ: مَالًا: قرض دینا۔ الشَّيْءُ: پیٹنگی دینا۔ الضَّيْفُ: مہمان کے سامنے ناشتہ پیش کرنا۔ الرَّجُلُ: سلقہ کھانا۔ (دیکھئے سلفہ)

اسْلَفَ: الارْضُ: زمین کو زراعت کے لئے پیٹنے سے ہموار کرنا۔ مَالًا: قرض دینا۔

فِي الشَّيْءِ: قبض کرنا۔ الشَّيْءُ: کسی کو کوئی چیز سپرد کرنا۔ اسْلَفَتِ الْمَرْأَةُ: پینٹالیس سال کی ہونا۔ صفت (مُسْلِف) (یہ عورتوں ہی کے لئے مخصوص ہے۔)

سَالَفَهُ: فِي الْأَمْرِ: برابری کرنا۔ مَالًا: الارْضُ: ساتھ ساتھ چلنا۔ الْجَمَلُ: آگے بڑھنا۔

تَسَلَّفَ وَاسْتَلَفَ: الْمَالُ: قرض لینا۔ تَسَلَّفَ الرَّجُلُ: سلقہ کھانا (دیکھئے سلفہ)

تَسَالَفَ: الرَّجُلَانِ: ہم زلف ہونا۔ یہ دونوں مرد (سَلْفَان) کہے جاتے ہیں۔

اسْتَسَلَفَ: الْمَالُ: قرض لینا۔

السَّلَفُ: مِصْرُ: توشدان۔ ج سَلُوْفٌ وَاسْلَفٌ.

السلف: چیز۔ سَلَفُ الرَّجُلِ: ہم زلف۔ ج اسْلَافٌ.

السَّلَفُ: مِصْرُ: قرض۔ بر عمل صالح پیش کردہ۔ السَّلَفُ: گزشتہ آباء و اجداد۔

وَمَذَاهِبُ السَّلَفِ: متقدمین کے مذاہب۔ ج اسْلَافٌ.

السلف: چیز۔ ہم زلف۔ زَجَلٌ سَلَفٌ: گزرا ہوا مرد۔ ج اسْلَافٌ. اَرْضٌ سَلَفَةٌ: کم درختوں والی زمین۔

السَّلَفُ: بچور کا چوزہ۔ ج سَلْفَانٌ وَسَلْفَانٌ.

السَّلَفَةُ: ہر وہ چیز جس کو غذا سے پہلے وقت گزاری کے لئے کھایا جائے۔ کھانا جس کو

آنے والے کے لئے محفوظ رکھیں۔ جماعت متقدمین۔ چرمی موزے کا اسٹر جو باریک

چمڑے کا ہو۔ ج سَلَفٌ: پیٹنے سے ہموار کی ہوئی زمین۔ کہا جاتا ہے "جَاوَزُوا سَلَفَةَ سَلَفَةٍ" وہ یکے بعد دیگرے آئے۔

السلاف والسلافة: نچوڑنے سے پہلے جو خود بخود ہے (یہ بہترین شراب ہے)

سلاف العسکر: مقدمہ فکر۔ سلافة كل شئ عَصْرَتُهُ: ہر نچوڑی ہوئی چیز کا ابتدائی حصہ۔ ج سلافات.

الاسْلُوفَةُ: دامادی۔ کہا جاتا ہے "بَيْنَهُمْ اسْلُوفَةٌ" ان کے درمیان رشتہ داری ہے۔

السبائف: فا۔ گزرا ہوا۔ پیش رفت۔ تم کہتے ہو "تَمَّانَ ذَلِكَ فِى سَبَائِفِ الْأَيَّامِ" یہ

گزشتہ زمانہ میں تھا۔ ج سَلَفٌ وَسَلَافٌ.

السبائفة: گزری ہوئی۔ گردن کا وہ حصہ جو بالی لٹکنے کی جگہ ہے۔ سبائفة الفرس: گردن کا اگلا حصہ۔ ج سَوَالِفٌ.

السَلُوْفُ: مِنَ الْإِبِلِ: گھاٹ پر جاتے ہوئے آگے آگے رہنے والا اونٹ۔ مِّنَ النَّخْلِ: تیز رفتار کھوڑا۔ سَهُمٌ سَلُوْفٌ: لمبا

تیر۔ ج سَلَفٌ.

السِّلْفُ: پیش رو۔ جماعت متقدمین۔ ج سَلُوْفٌ.

السِّلْفُ: پینٹالیس سالہ عورت۔ السِّلْفَةُ: وہ اوزار جس کو زمین ہموار کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور جس کا نام

بیگا۔ پیٹلا۔ سروان ہے۔ السِّلْفُوفَةُ: ہموار کی ہوئی زمین۔

سَلَقَ (ن) سَلَقًا: الْبَيْضُ اَوِ الْبَقْلُ: انڈے یا سبزی اُبالنا۔ جوش دینا سَلَقَهُ بِالْكَلامِ: بدزبانی سے تکلیف پہنچانا۔ قرآن مجید میں ہے "سَلَقُوا مُحَمَّدًا بِالسِّنَةِ حِجَادًا" تم کو وہ لوگ تیز تیز زبانوں سے طعنے دیتے ہیں

..... بِالرُّمُحِ: نیزہ مارنا۔ بِالْمَسْوُطِ: مار کر کھال اُدھیر دینا۔ سَلَقَ اللَّحْمَ عَنِ الْعَظْمِ: گوشت ہڈی سے جدا کرنا۔ علیحدہ کرنا۔

الشَّيْءُ بِالْمَاءِ الْحَارِّ: گرم پانی سے بال اُون وغیرہ دور کرنا۔ الْمَذَابَةُ الرَّابِحُ: باطن ران کو کھیل دینا۔ الْمَزَادَةُ: توشدان پر تھل مانا۔ السَّرْوُ النَّبَاتُ: جلا دینا۔

الرَّجُلُ: چت پچھاڑنا۔ تم کہتے ہو "أَخَذْتُهُ فَسَلَقْتُ لِقْفَاهُ" میں نے اس کو پکڑا اور چت پچھاڑ دیا۔ الْعُوْدُ فِي الْعُوْرَةِ: کسی چیز کے دست میں کڑی لگانا۔ الْقَدَمُ فِي الطَّرِيقِ: قدم کارا سے میں نشان ڈالنا۔

..... الرَّجُلُ: دیوار چڑھنا۔ سَلِقَ: السِّلْفَةُ وَعَلَيْهَا: سلقہ پر پیدا کیا جانا۔

اسْلَقَ: الْعُوْدُ فِي الْعُوْرَةِ: کسی چیز کے دست میں کڑی داخل کرنا۔ لگانا۔ الرَّجُلُ: مادہ بھیڑیے کا شکار کرنا۔

تَسَلَّقَ: چت سونا۔ الْجِدَارُ: دیوار پر چڑھنا۔ دیوار پھانڈنا۔ عَلِيٌّ فِرَاشِيهٌ: درد یا غم سے ترپنا۔ بے قرار ہونا۔

إِسْلَقَ: اللِّسَانُ: زبان کا کھیل جانا۔ سَلَقِيْنَهُ سَلْفَاءً: چت لگانا۔ سَلَقِيْنَهُ بِالرُّمُحِ: نیزہ مارنا۔

سَلَقِيْنَهُ سَلْفَاءً: چت لگانا۔ سَلَقِيْنَهُ بِالرُّمُحِ: نیزہ مارنا۔

إِسْتَلْقَى اسْتَلْقَاءً وَإِسْتَلْقَى اسْتَلْقًا: چت لیٹنا۔ فَعْلَى وَافْعَلَى وَافْعَلَى کے اوزان ملکتھا رہا ہی سے ہیں۔)

السَّلْقُ: بمص۔ (..... والسَّلْقُ): زخم کا داغ۔ والسَّلْقُ: ہموار و عمدہ زمین۔ کشادہ راستہ۔ جِ اسْلَاقٍ وَسُلْقَانٍ وَسُلْقَانَ.

السَّلْقُ: چمندر۔ پانی بہنے کی جگہ۔ بھیڑیا۔ جِ سُلْقَانَ وَسُلْقَانَ.

السَّلْقَةُ: مادہ بھیڑیا۔ جِ سَلِقٍ وَسَلِقٍ. السَّلْقَةُ: زبان دراز عورت۔ ٹڈی جو کہ اٹھے دے پچکی ہو۔

السَّالِقَةُ: مِنَ السَّاءِ: دو بہتر مارنے والی۔ داویا کرنے والی عورت۔ جِ سَوَالِقٍ.

السَّلَاقُ: زبان کی جڑ کی پھنسیاں یا دانت کی جڑوں کی خراش۔ پوٹوں کی موٹائی، سرخی و زخم کے ساتھ۔

السَّلَاقَةُ: ہد زبانی۔ السَّلَاقَةُ: دو اڑوں کا جو شانہ۔

السَّلَاقُ: راستہ پر قدم وغیرہ کے نشانات۔ السَّلْوَقِيُّ وَالسَّلَاقِيُّ: مِنَ الْبِكَلَابِ: ایک خاص قسم کا شکاری کتا۔

السَّلْوَقِيَّةُ: السَّلْوَقِيُّ: کا مؤنث۔ جہاز کے کپتان کے بیٹھے کی جگہ۔ السَّلْوَقِيَّةُ مِنَ السَّلْوُوعِ: وہ زرہیں جو یمن کے ایک علاقہ سلوق کی جانب منسوب ہیں۔

السَّلَاقُ: اسم مبالغہ۔ خَطِيبٌ (سَلَّاقٌ وَمَسْلُوقٌ وَمِسْلَاقٌ): بیخ لکچرار۔

السَّلَاقُ: نصرانیوں کی ایک عید۔ (کلہ سر یا نیسے۔)

السَّلِيقِيُّ: چھوٹے درختوں کے گڑے ہوئے پتے۔ چھتے کی لمبائی میں شہد کی ایک مقدار۔ سَلِيقِيُّ الطَّرِيقِ: راستہ کا پہلو۔ جِ سَلْقٍ.

السَّلِيقَةُ: طبیعت۔ جِ سَلَّاقٍ: ابالی ہوئی سبزی۔

السَّلِيقِيَّةُ: سلیقہ کی جانب منسوب۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ يَكَلِّمُ بِالسَّلِيقِيَّةِ" وہ بغیر کچھے ہوئے بالطبع گفتگو کرتا ہے۔ و"إِضْطَرَبَ

كَلَامَ الْعَرَبِ وَعَلَّيْتُ السَّلِيقِيَّةُ" یعنی وہ لوگ سلیقہ سے گفتگو کرتے ہیں۔ بغیر اس کے کہ اعراب کا قصد کریں اور غلطی سے بچنے کا ارادہ کریں۔

سَلَكَ (ن) سَلَكًا وَمَلُوكًا. الْمَكَانُ: داخل ہونا..... الطَّرِيقُ: راستہ کی اتباع کرتے ہوئے چلنا..... وَأَسْلَكَ الشَّيْءُ فِي الشَّيْءِ: کسی چیز کو کسی چیز میں داخل کرنا۔

سَلَكَةُ الْمَكَانِ وَأَسْلَكَةُ الْمَكَانِ وَفِيهِ وَعَلَيْهِ: کسی جگہ میں داخل کرنا۔ وَمِنْ كَلَامِ الْمَسْؤُلِينَ سَكَكَ الْغَزْلُ: سوت کو چرخہ پر چڑھانا۔

إِنْسَلَكَ. فِي الشَّيْءِ: کسی چیز میں داخل ہونا۔ السَّلَكُ: لڑی۔ جِ سُلُوكٍ وَأَسْلَاكٍ.

السُّلُكُ: سنگ خوار یا چکورد کا چوزہ۔ مَوْئِثُ سُلُكَةٍ جِ سِلْكَانٍ.

السِّلْكَةُ: سلائی کا دھاگہ۔ جِ سِلْكَ وَجِ اسْلَاكٍ وَمُلُوكٍ.

السُّلْكِيُّ: نیزہ کی سیدھی ضرب اور کہا جاتا ہے "أَمْرُهُمْ سُلْكِي" یعنی ان کا معاملہ ایک طریقہ پر ہے۔

المُسْلَكُ: راستہ۔ جِ مَسَالِكٍ. الْمَسْلُكَةُ: دھجی جو کپڑے کے کنارے سے پھاڑی جائے۔

المَسْلُكَةُ: چرخہ۔ (مولد) الْمُسْلُكُ: تخمیف ولاغر۔

سَلِمَ (س) سَلَامَةً وَسَلَامًا. مِنْ عَيْبٍ أَوْ آفَةٍ: نجات پانا۔ بری ہونالہ القائلِ: مخصوص ہونا اور کہتے ہیں "لَا يَذِي سَلَمًا مَا كَانَ تَحِلًّا" یعنی نہیں قسم ہے اس ذات کی جو تمہیں محفوظ رکھتی ہے ایسا نہیں تھا اور مخاطب کے تثنیہ و جمع' تذکرہ و تانیث کے لحاظ سے

"بِذِي تَسْلَمَانَ وَتَسْلَمُونَ وَتَسْلِمِينَ" استعمال کرتے ہیں اور علیٰ هَذَا الْقِيَاسِ "إِذْهَبْ بِذِي تَسْلَمٍ" یعنی

سلامتی کے ساتھ جاؤ۔ سَلَمْتُهُ (ن) سَلَمًا. النَحِيَّةُ: سانپ کا ڈسنا۔

سَلَمَ (ض) سَلَمًا. الْجِلْدُ: کھال کو سلم درخت کے پتوں سے داغت دینا۔

السَّلْمُ: ڈول بنانے سے فارغ ہونا اور مضبوط و عمدہ بنانا۔

سَلَمْتُهُ. وَسَلَمْتُ عَلَيْهِ. السَّلَامُ عَلَيْكَ کہنا..... هِيَ مِنَ الْآفَةِ: محفوظ رکھنا..... هِيَ إِلَى فَلَانٍ: سپرد کردینا۔ سَلَمْتُ بِالْأَمْرِ: راضی ہونا..... إِلَيْهِ: فرمانبردار ہونا..... الشَّيْءُ: خالص کرنا۔ سَلَمْتُ الشَّيْءَ فَسَلَمْتُهُ: کسی کو کوئی چیز سپرد کرنا اور اس کا قبول کر لینا۔

سَلَمْتُهُ: مصالحت کرنا۔

أَسَلَمْتُ: فرمانبردار ہونا۔ دین اسلام اختیار کرنا۔ بَحَّ سَلَمٌ کرنا..... الْعَدُوُّ: دشمن کو چھوڑ دینا۔ أَمْرَةٌ إِلَى اللَّهِ: سپرد کردینا اور تم کہتے ہو "أَسَلَمْتُهُ وَسَلَمْتُهُ" جبکہ تم کسی کو چھوڑ دو اس وقت جبکہ کوئی شخص تکلیف پہنچانا چاہتا ہو۔

أَسَلِمْتُ: سانپ سے ڈسا جانا۔ تَسَلَمْتُ: مسلمان بننا..... الشَّيْءُ: قبضہ کرنا..... مِنْهُ: بیزار ہونا۔

تَسَالَمَ: الْقَوْمُ: باہم مصالحت و موافقت کرنا۔ تَسَالَمَتِ الْخَيْلُ: بغیر لڑے بھڑے ساتھ ساتھ چلنا۔

إِسْتَلَمَ: الْحَيَوُ: چھونا۔ (سَلِمَةً: بمعنی پتھر سے ماخوذ ہے) بوسہ دینا اور بسا اوقات پتھر کے علاوہ دوسری چیزوں کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ تم کہتے ہو "إِسْتَلَمْتُ يَدَهُ" میں نے اس کے ہاتھ کو چھوا یا بوسہ دیا۔

..... الزَّرْعُ: خوشہ لگانا۔

إِسْتَسَلَمَ: فرماں بردار ہونا۔ تَمَسَّلَمَ: مسلمان کہلانا (یہ سلم سے ماخوذ ہے جیسے مسکین سے تَمَسَّكُنَ)

السَّلْمُ: بمص۔ ایک گوشہ والا ڈول۔ جِ أَسَلَمْتُ وَسَلَامًا سَلَمًا: میں ایک لخت۔

السَّلْمُ: صلح کرنے والا۔ کہا جاتا ہے "آنا
بِالسَّلْمِ لِمَنْ سَأَلَ عِنْدِي وَحَزْبٌ لِمَنْ
خَارَ بَيْنِي" میں صلح کرنے والوں کے لئے صلح
جو اور لڑنے والوں کے لئے لڑا کا ہوں۔ قَوْمٌ
بِالسَّلْمِ: صلح کرنے والی قوم۔ سلامتی۔
اسلام۔

السَّلْمُ: سلامتی۔ تابعداری۔ قید۔ قیدی۔
ایک قسم کا کانٹے دار درخت جس کے پتوں
سے دباغت دی جاتی ہے اور اسی سے
ذو سَلْمِ نام رکھا گیا ہے۔ واحد (سَلْمَةٌ)
السَّلْمُ: سیرھی (مذکورہ مؤنث)۔ ج سَلَامِ
وَسَلَامٍ: وسیلہ۔ سبب۔ کہا جاتا ہے
"إِسْخَذَهُ سَلْمًا إِلَى حَاجَتِهِ" اس نے اس کو
اپنی حاجت کے لئے وسیلہ بنایا۔

السَّلْمَةُ: پیچر۔ ج سِلَامٌ: نازک ہاتھ
بیرون والی عورت۔

السَّلَامُ: مص۔ تسلیم کا اسم جیسے تعظیم سے
کلام۔ طاعت و فرمانبرداری کے لئے جھکنا۔
السَّلَامُ: اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے
ہے اس لئے کہ باری تعالیٰ ناقص و عیوب
سے پاک ہیں۔ دار السَّلَامِ: جنت۔ مَدِينَةُ
السَّلَامِ: بغداد۔ نَهْرُ السَّلَامِ: دریائے
دجلہ (.....) (السَّلَامُ): ایک قسم کا کڑوا
درخت۔ واحد (سَلَامَةٌ وَ سِلَامَةٌ)
السَّلَامَةُ: مص۔ عیوب و آفات سے
پاکی۔

السَّلَامِيُّ: چھوٹی بڈیوں میں سے ہر جوڑدار
بڈی جیسے انگلیوں کی بڈیاں۔ پھر تو سعا ہر
بڈی اور بڈی کے جوڑوں پر اطلاق ہونے
لگا۔ ج سَلَامِيَّاتٍ۔

السَّلَامِيُّ: دکھتی ہوا۔

السَّلِيمَانِيُّ: ایک قسم کا زہر جس کا جزو اعظم
پارہ ہے۔

السَّلْمُ وَاحِدُ السَّلْمَةِ: ایک درخت کا
نام (بول)۔

السَّلْمُونُ: ایک بڑی مچھلی کا نام۔

السَّلِيمُونُ: پھولوں کی جنس کا ایک نام۔

السَّلِيمُ: قاف۔ آنکھ اور ناک کے درمیان کی
کھال۔

السَّلِيمُ: ج۔ سَلْمِي: ڈسا ہوا۔ سخت زخمی
جو قریب بہلاکت ہو (ان دونوں کو تفساؤلاً
سَلِيمِ کہتے ہیں)۔ ج سَلْمَاءُ: آفات
سے محفوظ۔

الْأَسْلَمُ: آفات سے بہت محفوظ۔ مؤنث
سَلْمِي۔

الْأَسْلِيمُ: چھوٹی انگلی اور اس کے پاس والی
انگلی کے درمیان کی ایک رگ۔

الْإِسْلَامُ: مص۔ بغیر کسی پس و پیش کے امر و
نہی کی فرمانبرداری کر لینا۔ مذاہب اسلام
اور کبھی مسلمانوں کے لئے استعمال کیا جاتا
ہے۔

المُسْلِمُ: دین اسلام کا پیرو۔ ج مُسْلِمُونَ
مؤنث مُسْلِمَةٌ ج مُسْلِمَاتٌ۔

أَرْضُ (مُسْلِمُونَ): بہت درخت سلم والی
زمین۔

السَّلْمُ: الفرس۔ گھوڑے کا لہا ہونا۔
سَلَا سَلُو سَلُو سَلُو سَلُو سَلُو سَلُو سَلُو
يَسَلِي سَلِيًّا. الشئُ وَعَنَهُ: بھول جانا۔ تسلی
پانا۔ بے غم ہونا۔

أَسَلِي إِسْلَاءَ. القَوْمُ: درندوں سے مامون
ہونا۔ إِسْلَاءٌ عَنَ هَيْبَةٍ: بے غم کر دینا۔

سَلِي تَسَلِيًّا: مختلف تسلی ظاہر کرنا۔ تسلی پانا۔
کہا جاتا ہے "سَلَاءٌ وَأَسْلَاءٌ فَتَسَلِي" اس
نے اسے تسلی دی اور اسے تسلی حاصل ہو گئی
(.....) (السَلِي): غم زائل ہونا۔

إِسْتَلَّتْ إِسْتِلَاءً. الشَّاةُ: موٹی ہونا۔
السَّلْوَةُ وَالسَّلْوَةُ: تسلی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ
فِي سَلْوَةٍ مِنَ الْعَيْشِ" وہ فراخی و فارغ
الہالی کی زندگی میں ہے۔ "أَسْقَيْتَنِي سَلْوَةً
مِنْ نَفْسِكَ" یعنی میں نے تجھ سے وہ چیز
دیکھی جس سے مجھے تسلی ہو گئی۔

السَّلْوَانُ: مص۔ (.....) وَالسَّلْوَانَةُ
وَالسَّلْوَانَةُ: ایک قسم کا مہرہ جس کو تعویذ کے
طور پر یا نظر بد سے بچنے کے لئے استعمال

کرتے ہیں۔

السَّلْوِيُّ: شہد۔ باعث تسلی۔ لوا۔ واحد
(سَلْوَةٌ)

السَّلْوَةُ: ہر وہ مقام جہاں پر تسلی زیادہ ہو۔
ہر وہ چیز جو باعث تسلی ہو۔

السَّلْوِيُّ: قاف۔ گھر و دروازے کا تیسرا گھوڑا۔

سَلَيْتُ تَسَلِيًّا سَلِيًّا. الشَّاةُ: ٹوٹی ہوئی
جیل والی ہونا۔ صفت (سَلْيَانَةٌ)

أَسَلْتُ. الشَّاةُ: بکری سے جیلی نکالنا۔

السَّلْيِيُّ: جیلی (وہ جھلی جس میں بچہ پلینا ہوا
ہوتا ہے اور اگر وہ پیٹ میں ٹوٹ جاتی ہے تو
بچہ اور ماں دونوں مر جاتے ہیں) ج اسْلَاءُ۔
"أَنْقَطَعَ السَّلْيِيُّ فِي الْبَطْنِ" اس وقت
بولتے ہیں جبکہ سارے حیلے ختم ہو جائیں اور
مصیبت بڑھ جائے۔ "هُوَ أَكْمَلُ
السَّلَاءِ" وہ خسیس و کمینہ ہے۔

السَّلْيُونُ بَيْدٌ: وہ مادہ جو کہ کافور اور روئی کے
میلانے سے سخت صاف ہر قسم کی صورت
بنانے کے قابل ہو جاتا ہے اس سے کنگلی
وغیرہ بنائی جاتی ہے۔

سَمَةٌ (ن) سَمًا: زہر دینا..... الطعام:
کھانے میں زہر ڈالنا..... القَارُورَةُ: بند کرنا
..... الشئُ: درست کرنا..... بَيْنَهُمَا: صلح
کراتا۔

..... الأَمْرُ: آزرنا اور تیک پہنچنا۔ سَمٌ
الْبِعْمَتَةُ إِلَيْهِ: مخصوص کرنا۔ سَمَ الشئُ:
سب کو عام ہونا۔

سَمْتُ (ن) سَمُومًا. الرِيحُ: جھلنا۔

سَمٌ. اليَوْمُ: دن کا سخت گرم ہونا یا گرم ہوا
والا ہونا..... النَّبَاتُ: باؤسوم سے جھلنا۔
صفت (مَسْمُومٌ)

سَمٌ. الطعامُ: کھانے میں زہر ڈالنا۔

أَسَمٌ إِسْمَامًا. اليَوْمُ: باؤسوم چلنا۔

السَّمُ وَالسَّمُ وَالسَّمُ: سوئی کا ناکا۔ زہر۔
ج سَمَامٌ وَسَمُومٌ. سَمٌ الْجَمَارُ: کثیر۔ سَمٌ
الْفَارُ: نکھیا۔ سَمٌ السَّمَكُ: ماہی زہر۔
(ایک دوا کا نام) سَمٌ مَسَاعِيَةٌ: فور ہلاک

کرنے والا زہر۔ کہا جاتا ہے "أَصَابَ سَمٌ حَاجِبِيَه" اس نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔
 السَّم: ہر وہ چیز جو سمندر سے نکلے مثل کتھ گھونٹا وغیرہ کے۔
 السُّمَّة: قرابت۔ کھجور کی چٹائی جس کو درخت خرما کے نیچے بچھا دیں تاکہ کھجوریں اسی پر گر سکیں۔ زینت کے لئے پرٹی ہوئی کوڑیاں۔ ج سَمَم و سَمَام۔
 سَمِيَّةٌ: الشئ: کسی چیز کا زہریلا اثر۔
 السَّمَام: ہلکا پھلکا تیر۔ ایک چھوٹا سا پرندہ۔ واحد (سَمَامَةٌ)
 السَّمَامُ وَالسُّمُومُ: مِنَ الْإِنْسَانِ: منہ۔ تھنے۔ کان۔ السَّمَامُ: بھیڑیا۔
 السُّمُومُ: گرم ہوا۔ مَوْنُوثٌ: ج سَمَامِيْم۔
 السَّمَامَةُ: کالبد انسانی۔ تم کہتے ہو "فَلَانٌ بِيَهِي السَّمَامِيَّةَ" فلاں خوبصورت بدن والا ہے۔ کھنڈرات۔ جھنڈا۔ گھوڑے کی گردن کا خوبصورت دائرہ۔ ابا بیل کی مانند ایک پرندہ جس کے انڈوں کا حاصل کرنا غیر ممکن ہے۔ اسی وجہ سے عرب کا قول ہے "كَمْ لَفْتِنِي بَيْضَ السَّمَامِيْمِ" تم نے مجھ کو تکلیف مالا بلاق دی۔ اور ایک قول بَيْضَ السَّمَامِيْمِ کا ہے۔ سَمَامِيْم بَيْضِيَّة کی جمع ہے جس کے معنی سرخ چوٹی کے ہیں۔
 السَّامُ: زہریلا۔
 السَّمَامَةُ: سَام: کا مؤنث۔ خاص۔ کہا جاتا ہے "عَرَفَ ذَلِكَ السَّمَامَةُ وَالْعَامَةُ" اس کو خاص اور عام سب جانتے ہیں۔
 سَامٌ أَبْرَصٌ وَسَمٌ أَبْرَصٌ: چھپکلی۔ شئ۔ سَامًا أَبْرَصٌ. ج أَبْرَصٌ وَسَوَامٌ أَبْرَصٌ. يَوْمٌ سَامٌ وَمِيْسَمٌ وَمَسْمُومٌ: گرم ہوا والا دن۔
 الْأَسْمُ: الْأَنْفِ: تنگ تھنے والا۔
 الْمَسَامُ: مِنَ الْجِلْدِ: جسم کے باریک سوراخ اور بعض لوگ۔ اس کو سَمٌ: بمعنی سوراخ کی جمع قرار دیتے ہیں جیسے مَسَامِيْن حُسْنٌ کی جمع۔

أَهْلُ (الْمَسْمُومَةِ): خاص لوگ۔ رشتہ دار۔ سَمَالٌ: الْخَلُّ: بھئی والا ہونا۔ اِسْمَالٌ: اِسْمَالًا: دبلا ہونا۔ الظِّلُّ: کوتاہ ہونا۔ السَّمَالُ: سایہ۔ السَّمْوَالُ: سَمِيْر: سرکہ کے اوپر کی کھئی۔ ایک شخص کا نام جو وفاء عہد کے لئے ضرب المثل ہے۔ الْمُسْمَلُ: قاتل۔ پراتا کپڑا۔ سَمَتٌ: (ن ض) سَمَتًا: سَمَتَ الشئُ و راستہ اختیار کرنا۔ راہ راست پر چلنا۔ گمان سے راستہ پر چلنا۔ سَمَتَ نَحْوَهُ: قصد کرنا اور اسی سے ہے "وَهُنَّ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ سَوَامِيْمٌ" وہ سب خانہ کعبہ کی جانب قصد کرنے والی ہیں۔ سَمَتَ لُهُمْ: رائے و تدبیر و طریقہ گفتگو کی رہنمائی کرنا۔ سَمَتٌ: راستہ اختیار کرنا..... لِلْعَاطِسِ: بِرُوحِمِكَ اللَّهُ: کہہ کے دعا کرنا..... عَلَي الشئِ: کسی چیز پر اللہ کا نام لینا۔ سَامَتَهُ: مقابل ہونا۔ تَسَمَّتَهُ: قصد کرنا۔ السَمَتُ: مَمْس: راستہ۔ کہا جاتا ہے "خَذْ فِي هَذَا السَمَتِ" اس راستہ کو اختیار کرو۔ ج سَمُوْتٌ سَمَتُ الرَّاسِ فِي عِلْمِ الْهَيْبَةِ: علم ہیئت کی اصطلاح میں کسی کھڑے ہوئے شخص کے سر کی سیدھ میں آسمان کا وہ نقطہ جس پر کمرہ ارض کے مرکز سے نکلا ہوا خط پینچے۔ سمت الراس کہلاتا ہے اور اس کے مقابل کو سَمَتُ الْقَدَمِ يَأْتِي الرُّجُلُ کہتے ہیں اور سمت کا لفظ اہل خبر و صلاح کی ہیئت کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے "مَا أَحْسَنَ سَمَتَ فَلَانٍ" اس کی ہیئت و حالت کس قدر اچھی ہے۔ سَمَحٌ: (ك) سَمَاحَةٌ وَسَمُوْحَةٌ: قَبِيْحٌ ہوتا۔ صفت (سَمَحٌ وَسَمِيْحٌ وَسَمِيْحٌ) ج سَمَاحٌ وَسَمِيْحُونَ وَسَمَاحَةٌ وَسَمَاجِي. سَمَجَةٌ: قَبِيْحٌ بَنَانًا۔

اِسْتَسْمَحَهُ: قَبِيْحٌ كَبْحَانًا۔ سَمَجَرٌ سَمَجْرَةٌ: اللَّبْنُ: دودھ میں پانی زیادہ ملانا۔ سَمَحٌ: (ك) سَمَاحًا وَسَمُوْحًا وَسَمَاحَةٌ وَسَمُوْحَةٌ وَسَمَاحًا وَسَمَاحًا: فِاضٌ وَخِي ہونا۔ صفت (سَمَحٌ وَسَمِيْحٌ وَسَمِيْحٌ) ج سَمَاحٌ وَسَمَاحَةٌ وَسَمَاحَةٌ وَسَمَاحَةٌ: تَم كَبْتُمْ ہونا "رَجَالٌ وَنِسَاءٌ سَمَاحٌ وَسَمَاحَةٌ وَسَمَاحِيْحٌ"۔ سَمَحٌ: (ف) سَمَاحَةٌ وَسَمَاحًا: بَكْدًا: بَشِيْحٌ کرنا..... لَهُ بِالشئِ: دینا..... الْعُوْدُ: لَكْرِي كَانَزَم ہونا..... النَّاقَةُ: اَوْشِي كَامَطِيْحٌ وَتَمِيْرٌ رَقَاتر ہونا۔ سَمَحٌ: نَزَم ہونا اور نَزَم بَرْتَاؤُ کرنا..... السَّمُوحُ: نِيْزَةٌ كَانَزَم کرنا..... الرَّجُلُ: آہستہ چلنا۔ دَوْرَانًا: بھانگنا۔ اِسْمَحُ الرَّجُلُ: فِاضٌ وَخِي ہونا۔ اِسْمَحَتِ الدَّابَّةُ: سَرَكَشِي کے بعد نزم ہونا اور کہا جاتا ہے "اِسْمَحَتْ قُرُوْنُهُ" یعنی اس کا نفس تابع و فرمانبردار ہو گیا۔ سَمَاحَةٌ: فِي الْأَمْرِ وَبِالْأَمْرِ: نَزَم بَرْتَاؤُ کرنا۔ نَزَمِي کرنا۔ مَقْدَمٌ مِمْوَافَقَتٌ کرنا..... ه بَدَنِيْهِ: دَرَكْرُ کرنا۔ تَسْمَحُ وَتَسْمَاحُ: فِي كَدًّا: نَزَمِي بَرْتَا۔ السَّمَاحُ: مَمْس: بَيْعُ السَّمَاحِ: وَهِيَ جَمْعٌ فِي مِمْ قِيْمَتٌ كَثِيْرَةٌ فِي نَزَمِي ہونا۔ کہتے ہیں "السَّمَاحُ رِبَاحٌ" یعنی معاملات میں نزمی نفع بخش ہوتی ہے۔ السَّمَاحُ: مَمْس: چڑے کا خیمہ۔ السَّمْحَةُ: السَّمْحُ: كَامُوْنُوثٌ: ج سَمَاحُ الْمَسْمُوحُ: وَسَعَتٌ وَفَرَاخِي۔ السَّمْحَجُ: دَرَا زِيْثٌ كُھُوْرٌ اِيَا كَدْمِي۔ پتلی کر اور سخت گوشت والا کھوڑا۔ السَّمْحَاقُ: سَرَكِي بُدِي پر باریک جھلی۔ سَمَاجِيْقِي: السَّمَاءُ: بِادِل کے پتلے کلاڑے اور کہا جاتا ہے: "عَلِي قُرْبُ الشَّاةِ"

سَمَاجِيْقٌ مِنَ الشَّحْمِ“ بکری کے اوجھ کی چادر پر چربی کی کچھ تھلی سی ہے۔

سَمَخٌ (ن) سَمَخًا. الزَّرْعُ: بھتیق کا اگنا۔

(سَمَخُهُ) (ن) سَمَخًا) کان کے سوراخ پر

چوٹ لگا کر زخمی کرنا۔ کہا جاتا ہے ”سَمَخْنِي بِحِدَّةِ صَوْتِهِ وَكَثْرَةِ كَلَامِهِ“ اس نے آواز کی تیزی اور کثرت گفتگو سے میرے کان کو زخمی کر دیا۔

..... زُرْعٌ حَسَنٌ (الْبِسْمَخَةُ) اچھی اگنے والی بھتیق۔

البِصَاخُ: کان کا سوراخ۔

سَمَدٌ (ن) سَمُوْدًا: حیران کھڑا ہونا۔

تھیر ہونا۔ گانا۔ تکبر سے سراٹھانا اور سینہ تانا

..... فِي الْعَمَلِ: کوشش کرنا اور تکلیف اٹھانا

..... الْإِبِلُ: اونٹ کا تیز چلانا (..... سَمَدًا) الرَّجُلُ: قصد کرنا۔

سَمَدٌ. الْأَرْضُ: کھاؤ الٹا..... الشَّعْرُ: بال کوجڑ سے موٹنا..... الرَّجُلُ: بھیل کود میں ڈالنا۔ غافل کر دینا۔

إِسْمَةٌ إِسْمِدًا إِذَا وَاسْتَأْدَ إِسْمِدًا إِذَا الرَّجُلُ: غصے سے پھولنا..... يَنْدُهُ: ہاتھ کا

سو جنا..... الشَّيْءُ: ضائع ہونا۔ کہا جاتا ہے ”هَذَا لَكَ (سَمَدًا)“ وہ تمہارے واسطے

ہمیشہ کے لئے ہے۔

السَّمَادُ: کھاد۔

السَّمِيدُ: نَشْرٌ يَأْبَى هَبَشِيٌّ يَدُورُ فِي سُرْكِي وَجِبٍ سَمَدِيٍّ: نیشور۔ بادشاہ (اس وجہ سے کہ اس کی طرف دیکھنے سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔)

السَّمِيدِيُّ: نَشْرٌ يَأْبَى هَبَشِيٌّ يَدُورُ فِي سُرْكِي وَجِبٍ سَمَدِيٍّ: نیشور۔ بادشاہ (اس وجہ سے کہ اس کی طرف دیکھنے سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔)

السَّمِيدِيُّ: نَشْرٌ يَأْبَى هَبَشِيٌّ يَدُورُ فِي سُرْكِي وَجِبٍ سَمَدِيٍّ: نیشور۔ بادشاہ (اس وجہ سے کہ اس کی طرف دیکھنے سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔)

السَّمِيدِيُّ: نَشْرٌ يَأْبَى هَبَشِيٌّ يَدُورُ فِي سُرْكِي وَجِبٍ سَمَدِيٍّ: نیشور۔ بادشاہ (اس وجہ سے کہ اس کی طرف دیکھنے سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔)

السَّمِيدِيُّ: نَشْرٌ يَأْبَى هَبَشِيٌّ يَدُورُ فِي سُرْكِي وَجِبٍ سَمَدِيٍّ: نیشور۔ بادشاہ (اس وجہ سے کہ اس کی طرف دیکھنے سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔)

السَّمِيدِيُّ: نَشْرٌ يَأْبَى هَبَشِيٌّ يَدُورُ فِي سُرْكِي وَجِبٍ سَمَدِيٍّ: نیشور۔ بادشاہ (اس وجہ سے کہ اس کی طرف دیکھنے سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔)

جلتا نہیں۔

السَّمِيدُ: نَشْرٌ يَأْبَى هَبَشِيٌّ يَدُورُ فِي سُرْكِي وَجِبٍ سَمَدِيٍّ: نیشور۔ بادشاہ (اس وجہ سے کہ اس کی طرف دیکھنے سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔)

السَّمِيدُ: نَشْرٌ يَأْبَى هَبَشِيٌّ يَدُورُ فِي سُرْكِي وَجِبٍ سَمَدِيٍّ: نیشور۔ بادشاہ (اس وجہ سے کہ اس کی طرف دیکھنے سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔)

السَّمِيدُ: نَشْرٌ يَأْبَى هَبَشِيٌّ يَدُورُ فِي سُرْكِي وَجِبٍ سَمَدِيٍّ: نیشور۔ بادشاہ (اس وجہ سے کہ اس کی طرف دیکھنے سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔)

السَّمِيدُ: نَشْرٌ يَأْبَى هَبَشِيٌّ يَدُورُ فِي سُرْكِي وَجِبٍ سَمَدِيٍّ: نیشور۔ بادشاہ (اس وجہ سے کہ اس کی طرف دیکھنے سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔)

السَّمِيدُ: نَشْرٌ يَأْبَى هَبَشِيٌّ يَدُورُ فِي سُرْكِي وَجِبٍ سَمَدِيٍّ: نیشور۔ بادشاہ (اس وجہ سے کہ اس کی طرف دیکھنے سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔)

گا۔

سَمَرٌ (ن ض) سَمَرًا وَسَمَرًا. اللَّبَنُ: دودھ کو پانی ملا کر پتلا کرنا..... السَّخْمَرُ: شراب پینا..... النَّبَاتُ: گھاس چرنا.....

السَّخْمَرُ: شراب پینا..... النَّبَاتُ: گھاس چرنا.....

السَّخْمَرُ: شراب پینا..... النَّبَاتُ: گھاس چرنا.....

السَّخْمَرُ: شراب پینا..... النَّبَاتُ: گھاس چرنا.....

السَّخْمَرُ: شراب پینا..... النَّبَاتُ: گھاس چرنا.....

السَّخْمَرُ: شراب پینا..... النَّبَاتُ: گھاس چرنا.....

السَّخْمَرُ: شراب پینا..... النَّبَاتُ: گھاس چرنا.....

السَّخْمَرُ: شراب پینا..... النَّبَاتُ: گھاس چرنا.....

السَّخْمَرُ: شراب پینا..... النَّبَاتُ: گھاس چرنا.....

السَّخْمَرُ: شراب پینا..... النَّبَاتُ: گھاس چرنا.....

السَّخْمَرُ: شراب پینا..... النَّبَاتُ: گھاس چرنا.....

السَّخْمَرُ: شراب پینا..... النَّبَاتُ: گھاس چرنا.....

السَّخْمَرُ: شراب پینا..... النَّبَاتُ: گھاس چرنا.....

السَّخْمَرُ: شراب پینا..... النَّبَاتُ: گھاس چرنا.....

السَّخْمَرُ: شراب پینا..... النَّبَاتُ: گھاس چرنا.....

ترکیبوں میں ”سَمَدَةٌ وَجُودُ السَّمَرِ وَالْقَمَرِ“ مخدوف ہے۔ مراد بھتیق ہے۔

السَّمَرَةُ: رات کی گفتگو۔

السَّمَرُ: بیول کا درخت۔ ج. أَسْمَرٌ: واحد (سَمَرَةٌ)

السَّمَرُ: بیول کا درخت۔ ج. أَسْمَرٌ: واحد (سَمَرَةٌ)

السَّمَرُ: بیول کا درخت۔ ج. أَسْمَرٌ: واحد (سَمَرَةٌ)

السَّمَرُ: بیول کا درخت۔ ج. أَسْمَرٌ: واحد (سَمَرَةٌ)

السَّمَرُ: بیول کا درخت۔ ج. أَسْمَرٌ: واحد (سَمَرَةٌ)

السَّمَرُ: بیول کا درخت۔ ج. أَسْمَرٌ: واحد (سَمَرَةٌ)

السَّمَرُ: بیول کا درخت۔ ج. أَسْمَرٌ: واحد (سَمَرَةٌ)

السَّمَرُ: بیول کا درخت۔ ج. أَسْمَرٌ: واحد (سَمَرَةٌ)

السَّمَرُ: بیول کا درخت۔ ج. أَسْمَرٌ: واحد (سَمَرَةٌ)

السَّمَرُ: بیول کا درخت۔ ج. أَسْمَرٌ: واحد (سَمَرَةٌ)

السَّمَرُ: بیول کا درخت۔ ج. أَسْمَرٌ: واحد (سَمَرَةٌ)

السَّمَرُ: بیول کا درخت۔ ج. أَسْمَرٌ: واحد (سَمَرَةٌ)

السَّمَرُ: بیول کا درخت۔ ج. أَسْمَرٌ: واحد (سَمَرَةٌ)

السَّمَرُ: بیول کا درخت۔ ج. أَسْمَرٌ: واحد (سَمَرَةٌ)

السَّمَرُ: بیول کا درخت۔ ج. أَسْمَرٌ: واحد (سَمَرَةٌ)

السَّمَرُ: بیول کا درخت۔ ج. أَسْمَرٌ: واحد (سَمَرَةٌ)

السَّمَرُ: بیول کا درخت۔ ج. أَسْمَرٌ: واحد (سَمَرَةٌ)

السَّمَرُ: بیول کا درخت۔ ج. أَسْمَرٌ: واحد (سَمَرَةٌ)

السَّمَرُ: بیول کا درخت۔ ج. أَسْمَرٌ: واحد (سَمَرَةٌ)

السَّمَرُ: بیول کا درخت۔ ج. أَسْمَرٌ: واحد (سَمَرَةٌ)

لہا۔

السَّمُومَرُ: ایک قسم کا پرندہ جو نڈیوں کا بہت شکار کرتا ہے اور نڈیاں اس کی آواز سے بھاگتی ہیں۔ السَّمُومَرَةُ: بھوت۔

سَمُومَرٌ سَمُومَرَةٌ: دلال ہوتا۔

السِّمْسَارُ: دلال۔ چیز کا مالک و منتظم۔

بِسْمَاوِ الْأَرْضِ: زمین کا ماہر۔ جِ سَمَابِرَةٌ وَسَمَابِرٌ وَسَمَابِرٌ.

السَّمُومَرَةُ: مص۔ دلالی کا پیشہ۔ دلالی کی اُجرت۔

السِّمِيقُ وَالسَّمِيقُ وَالسَّمِيقُ وَالسَّمِيقُ وَالسَّمِيقُ: جھیلیں۔ مرزنجوش۔

سَمُومَرٌ السَّمُومَرُ: لومڑی کا دوڑنا۔ السَّمُومَرُ: لومڑی۔ بھینڑیا۔ زہر۔

السَّمُومَرُ: سرخ چیونٹی۔ چھوٹی چیونٹی۔ واحد (سَمُومَرَةٌ) ہلکا ہلکا مرد۔ جِ سَمَامِسُ.

السَّمِيمُ: تل و شیا۔ سانپ کی ایک قسم۔ رَجُلٌ (سَمِيمٌ) الْوَجْهَ: خالدار چہرے والا مرد۔

سَمَطٌ: (ن) سَمُوطًا. الرِّجْلُ: چپ رہتا۔

عَلَى السِّجِّينِ: قسم کھانا۔ السِّجِّينِ: مٹھاس میں تغیر ہوتا۔ صفت (سَمِيطٌ)

سَمَطٌ: (ن ش) سَمَطًا. الجَدِيمِ: بکری کے بچوں کو بالوں سے صاف کر کے بھوننا۔

السُّيُّ: لٹکانا۔ السِّجِّينِ: چھری تیز کرنا۔ کہا جاتا ہے "سَمَطْتُ الرِّجْلَ يَمِينًا عَلَيَّ حَقِي" میں نے مرد کو اپنے حق پر قسم کھلائی۔

سَمَطٌ: چپ رہنا۔ السُّيُّ: لازم ہوتا۔ زین کے تسمہ سے لٹکانا۔ السَّاعِرُ:

مُسَمَّطٌ: اشعار نظم کرنا (دیکھو مُسَمَّطٌ) "سَمَطٌ قَصِيدَةُ فَلَانٌ" کسی کے قصیدہ کے اشعار کے ہر شعر کے مصرعوں میں اپنی

جانب سے ایک مصرعہ بڑھانا۔

السَّمَطُ: چپ ہونا۔

تَسَمَّطُ. السُّيُّ: بہ: لٹکانا۔

السِّمَطُ: لڑی جس میں مہرہ یا موتی پروئے ہوئے ہوں۔ ترین کا تسمہ جس سے کوئی چیز لٹکانی جائے۔ کہا جاتا ہے "عَلَّقَهُ بِسَمُوطٍ لِّتَكُنَّ لَهُ" اس نے اس چیز کو زین کے تسموں سے لٹکایا۔

السَّمَامَةُ: گپڑی کا تسمہ۔ گلوبند (زیور) سے لہا ہار۔ السِّمَطُ مِنَ السَّمَامَةِ: چادر کے نیچے نمایاں ہونے والا کپڑا۔

السَّمَامَةُ: ریت کی کپڑی۔ رَجُلٌ سَمَطٌ: ہلکا پھلکا چالاک مرد۔ جِ سَمُوطٌ.

السَّمَطُ: مص۔ فقیر۔ السَّمَطُ: اونی کپڑا۔

تَعَلُّ السَّمَطِ وَالسَّمَطِ: اکہرے چڑے کا جوتا۔ نَاقَةٌ سَمَطٌ وَالسَّمَطُ: بے داغ کی اونٹنی۔ سَمَاطٌ: اکہرا پاجامہ۔

السَّمِيطُ: قَامَاءُ سَمِيطٌ: جوش دیا ہوا پانی جو کسی چیز سے بال وغیرہ صاف کر دے۔

السَّمِيطُ: صاف بستہ چیز۔ دسترخوان۔ السَّمِيطُ الطَّرِيقِ: راستہ کے دونوں جانب۔

السَّمِيطُ القَوْمِ: قوم کی قطار۔ جِ سَمِيطٌ اور کہا جاتا ہے "هَمَّ عَلَيَّ سَمِيطٌ وَاحِدٌ" وہ ایک نظام میں ہیں۔

السَّمِيطُ: بال صاف کر کے بھوننا ہوا بکری کا بچہ۔ مرد سبک حال۔ فقیر۔ پختہ اینٹوں کا روہ۔ نَعْلٌ سَمِيطٌ: ایک چڑے کا جوتہ۔

السَّمِيطُ: پختہ اینٹوں کا روہ۔ السَّمِيطُ مِنَ الشَّيْءِ: وہ شعر جو اجزاء عروض پر ہو اور قافیہ کے حروف روی کے علاوہ دوسرے قافیہ پر ہو اور کہا جاتا ہے "حُكْمُكَ مُسَمَّطًا" تمہارا حکم پورا کیا ہوا ہے۔ تم پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس کی تقدیر یہ ہے "لَكَ حُكْمُكَ مُسَمَّطًا" اور مُسَمَّطًا

حالیہ کی وجہ سے مضموب ہے۔ و "هُوَ لَكَ مُسَمَّطًا" وہ تمہارے لئے خوشگوار ہے۔ و "خَذْ حُكْمُكَ مُسَمَّطًا" تم اپنے حکم کو جاری کرو جو روئیں ہوگا۔

السَّمِيطُ: ایک قسم کا پرندہ جس کی گردن لمبی

ہوتی ہے اور ہمیشہ اٹھنے پانی کے قریب دکھائی دیتا ہے۔

سَمِعَ (س) سَمِعًا وَسَمِعًا وَسَمَاعًا وَسَمَاعَةً وَسَمَاعِيَةً وَمَسْمَعًا. الصَّوْتُ: سنا۔ صفت (سَامِعٌ) جِ مَسْمَعٌ وَسَمْعَةٌ وَسَامِعُونَ..... لَهُ اللَّهُ: قبول کرنا..... مِنْهُ وَلَهُ: دینا۔

السَّمْعُ: کان لگانا۔ متوجہ ہونا۔ سَمِعَهُ الصَّوْتُ: سنا۔ سَمِعَ بِهِ: عیوب کو پھیلانا۔ رسوا کرنا۔ بری باتیں سنانا اور گالی دینا۔ سَمِعَ بِكَذَا: کسی کے متعلق کوئی چیز پھیلانا۔

..... بِفُلَانٍ فِي النَّاسِ: شہرت دینا۔ اسَمَعَهُ: سنانا۔ گالی دینا۔ ذُؤُلٌ مِّنْ دَسْتِ لَكَ: گانا۔

تَسَمَّعَ وَاسْتَمَعَ. الرِّجْلُ وَالْيَدُ: کان لگانا۔ تَسَامَعَ: بہ الناس: کسی کے متعلق لوگوں کا ایک دوسرے سے سنا۔

اسْتَمَعَ. لَهُ وَالْيَدُ: کان لگانا۔ اسْتَمَعَهُ: سنانا۔ السَّمْعُ: مص۔ سننے کا حار۔ کان۔ سنی ہوئی بات۔ سنا ہوا ذکر۔ جِ اسْمَاعٌ وَاسْمَعٌ: وجع آسامیع و آسامیع: کہا جاتا ہے "هُوَ مَانِينٌ سَمِعَ الْأَرْضِ وَبَصُرَهَا" جبکہ کوئی نہ جانتا ہو کہ کہاں گیا یا کسی زمین میں ہو جہاں اس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ و "الْقَسَى نَفْسَهُ تَبِينَ سَمِعَ الْأَرْضِ وَبَصُرَهَا" اس نے اپنے آپ کو ایسی جگہ میں ڈال دیا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ تھا۔

و "سَمِعَكَ أَلْسِي" میری بات سنو۔ میری طرف توجہ کرو۔ و "سَمِعَ أذُنِي فَلَانًا يَقُولُ ذَلِكَ" فلاں کو یہ کہتے ہوئے میرے کانوں نے سنا اور کہتے ہیں "سَمِعَ أذُنِي وَسَمْعَةَ أذُنِي وَسَمْعَةَ أذُنِي".

أَمَّ السَّمْعُ: دماغ۔ السَّمِيعُ: اچھی شہرت۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ سَمِيعٌ" اچھی شہرت کا مرد۔ و "هَذَا أَمْرٌ ذُو

ہوتی ہے اور ہمیشہ اٹھنے پانی کے قریب دکھائی دیتا ہے۔

سَمِعَ (س) سَمِعًا وَسَمِعًا وَسَمَاعًا وَسَمَاعَةً وَسَمَاعِيَةً وَمَسْمَعًا. الصَّوْتُ: سنا۔ صفت (سَامِعٌ) جِ مَسْمَعٌ وَسَمْعَةٌ وَسَامِعُونَ..... لَهُ اللَّهُ: قبول کرنا..... مِنْهُ وَلَهُ: دینا۔

السَّمْعُ: کان لگانا۔ متوجہ ہونا۔ سَمِعَهُ الصَّوْتُ: سنا۔ سَمِعَ بِهِ: عیوب کو پھیلانا۔ رسوا کرنا۔ بری باتیں سنانا اور گالی دینا۔ سَمِعَ بِكَذَا: کسی کے متعلق کوئی چیز پھیلانا۔

..... بِفُلَانٍ فِي النَّاسِ: شہرت دینا۔ اسَمَعَهُ: سنانا۔ گالی دینا۔ ذُؤُلٌ مِّنْ دَسْتِ لَكَ: گانا۔

تَسَمَّعَ وَاسْتَمَعَ. الرِّجْلُ وَالْيَدُ: کان لگانا۔ تَسَامَعَ: بہ الناس: کسی کے متعلق لوگوں کا ایک دوسرے سے سنا۔

اسْتَمَعَ. لَهُ وَالْيَدُ: کان لگانا۔ اسْتَمَعَهُ: سنانا۔ السَّمْعُ: مص۔ سننے کا حار۔ کان۔ سنی ہوئی بات۔ سنا ہوا ذکر۔ جِ اسْمَاعٌ وَاسْمَعٌ: وجع آسامیع و آسامیع: کہا جاتا ہے "هُوَ مَانِينٌ سَمِعَ الْأَرْضِ وَبَصُرَهَا" جبکہ کوئی نہ جانتا ہو کہ کہاں گیا یا کسی زمین میں ہو جہاں اس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ و "الْقَسَى نَفْسَهُ تَبِينَ سَمِعَ الْأَرْضِ وَبَصُرَهَا" اس نے اپنے آپ کو ایسی جگہ میں ڈال دیا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ تھا۔

و "سَمِعَكَ أَلْسِي" میری بات سنو۔ میری طرف توجہ کرو۔ و "سَمِعَ أذُنِي فَلَانًا يَقُولُ ذَلِكَ" فلاں کو یہ کہتے ہوئے میرے کانوں نے سنا اور کہتے ہیں "سَمِعَ أذُنِي وَسَمْعَةَ أذُنِي وَسَمْعَةَ أذُنِي".

أَمَّ السَّمْعُ: دماغ۔ السَّمِيعُ: اچھی شہرت۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ سَمِيعٌ" اچھی شہرت کا مرد۔ و "هَذَا أَمْرٌ ذُو

ہوتی ہے اور ہمیشہ اٹھنے پانی کے قریب دکھائی دیتا ہے۔

سَمِعَ (س) سَمِعًا وَسَمِعًا وَسَمَاعًا وَسَمَاعَةً وَسَمَاعِيَةً وَمَسْمَعًا. الصَّوْتُ: سنا۔ صفت (سَامِعٌ) جِ مَسْمَعٌ وَسَمْعَةٌ وَسَامِعُونَ..... لَهُ اللَّهُ: قبول کرنا..... مِنْهُ وَلَهُ: دینا۔

السَّمْعُ: کان لگانا۔ متوجہ ہونا۔ سَمِعَهُ الصَّوْتُ: سنا۔ سَمِعَ بِهِ: عیوب کو پھیلانا۔ رسوا کرنا۔ بری باتیں سنانا اور گالی دینا۔ سَمِعَ بِكَذَا: کسی کے متعلق کوئی چیز پھیلانا۔

..... بِفُلَانٍ فِي النَّاسِ: شہرت دینا۔ اسَمَعَهُ: سنانا۔ گالی دینا۔ ذُؤُلٌ مِّنْ دَسْتِ لَكَ: گانا۔

تَسَمَّعَ وَاسْتَمَعَ. الرِّجْلُ وَالْيَدُ: کان لگانا۔ تَسَامَعَ: بہ الناس: کسی کے متعلق لوگوں کا ایک دوسرے سے سنا۔

اسْتَمَعَ. لَهُ وَالْيَدُ: کان لگانا۔ اسْتَمَعَهُ: سنانا۔ السَّمْعُ: مص۔ سننے کا حار۔ کان۔ سنی ہوئی بات۔ سنا ہوا ذکر۔ جِ اسْمَاعٌ وَاسْمَعٌ: وجع آسامیع و آسامیع: کہا جاتا ہے "هُوَ مَانِينٌ سَمِعَ الْأَرْضِ وَبَصُرَهَا" جبکہ کوئی نہ جانتا ہو کہ کہاں گیا یا کسی زمین میں ہو جہاں اس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ و "الْقَسَى نَفْسَهُ تَبِينَ سَمِعَ الْأَرْضِ وَبَصُرَهَا" اس نے اپنے آپ کو ایسی جگہ میں ڈال دیا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ تھا۔

و "سَمِعَكَ أَلْسِي" میری بات سنو۔ میری طرف توجہ کرو۔ و "سَمِعَ أذُنِي فَلَانًا يَقُولُ ذَلِكَ" فلاں کو یہ کہتے ہوئے میرے کانوں نے سنا اور کہتے ہیں "سَمِعَ أذُنِي وَسَمْعَةَ أذُنِي وَسَمْعَةَ أذُنِي".

أَمَّ السَّمْعُ: دماغ۔ السَّمِيعُ: اچھی شہرت۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ سَمِيعٌ" اچھی شہرت کا مرد۔ و "هَذَا أَمْرٌ ذُو

ہوتی ہے اور ہمیشہ اٹھنے پانی کے قریب دکھائی دیتا ہے۔

سَمِعَ (س) سَمِعًا وَسَمِعًا وَسَمَاعًا وَسَمَاعَةً وَسَمَاعِيَةً وَمَسْمَعًا. الصَّوْتُ: سنا۔ صفت (سَامِعٌ) جِ مَسْمَعٌ وَسَمْعَةٌ وَسَامِعُونَ..... لَهُ اللَّهُ: قبول کرنا..... مِنْهُ وَلَهُ: دینا۔

السَّمْعُ: کان لگانا۔ متوجہ ہونا۔ سَمِعَهُ الصَّوْتُ: سنا۔ سَمِعَ بِهِ: عیوب کو پھیلانا۔ رسوا کرنا۔ بری باتیں سنانا اور گالی دینا۔ سَمِعَ بِكَذَا: کسی کے متعلق کوئی چیز پھیلانا۔

سُمُكٌ مِنَ الزُّوْرِ: ہنسی سے ملی ہوئی پہلی۔	الْمَسْمُوعُ: سننے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مِثِّي بِمِزْرَأِي وَعَسْمَعُ" یا "هُوَ مِثِّي مِزْرَأِي وَمَسْمَعٌ" وہ ایسی جگہ ہے کہ میں اس کو دیکھ سکتا ہوں اور اس کی باتوں کو سن سکتا ہوں۔	یہ سننے کے لائق ہے اور جب کوئی آدمی کسی غیر پسندیدہ خبر کو سنتا ہے تو کہتا ہے "بِسْمَعًا لَا بَلْغًا أَوْ سَمْعًا لَا بَلْغًا" یعنی خدا کرے کہ سنی جائے اور پتھے نہیں۔ السَّمِيعُ: بھیرے کا بچہ۔ مَوْنُوتٌ (بِسْمَعَةٍ) اس کی قوت سامعہ بہت تیز ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے مثال ہے "هُوَ أَسْمَعُ مِنْ بَرْمَعُ"۔
السِّمَّاكُ: دور روشن ستارے ایک کو السِّمَّاكُ الرَّامِحُ اور دوسرے کو السِّمَّاكُ الْأَعْوَلُ کہتے ہیں۔	السَّمِيعُ وَالْمَسْمُوعَةُ: کان۔ رَجَسَمَاعِ: ڈول کا دست جس میں رسی باندھی جاتی ہے۔	السَّمِيعَةُ: سَمِيعٌ: کا اسم مرآة۔ أَدْنَى سَمْعَةٍ: سننے والا کان۔ کہا جاتا ہے "فَعَلْنَا رِيَاءً وَسَمْعَةً" اس نے یہ کام دکھانے اور سنانے کے لئے کیا۔
السَّمِيكَةُ: ایک قسم کی چھوٹی مچھلی جو خشک کی جاتی ہے۔	السَّمِيعُ: قاتل۔ قَيْدُ السَّمِيعَةِ: گانے والی۔ کہا جاتا ہے "عَنَتُهُمْ مُسَمِعَةٌ"۔	السَّمِيعَةُ: شہرت۔ سنی ہوئی بات۔ کہا جاتا ہے "فَعَلْنَا رِيَاءً وَسَمْعَةً" اس نے یہ کام دکھانے اور سنانے کے لئے کیا۔
السَّمَاكُ: مچھلی بیچنے والا۔ السَّمِيكُ وَالْمَسْمُوكُ: لمبا۔ السَّمُوكُ مِنَ الْخَيْلِ: مضبوط گھوڑا۔	السَّمِيعُ: مفتح۔ قید کیا ہوا (السَّمِيعُ) شیطان خبیث۔	السَّمِيعَةُ: شہرت۔ سنی ہوئی بات۔ کہا جاتا ہے "فَعَلْنَا رِيَاءً وَسَمْعَةً" اس نے یہ کام دکھانے اور سنانے کے لئے کیا۔
السَّمَاكُ: خیمہ وغیرہ اٹھانے کی کلڑی۔ السَّمَكَاتُ وَالْمَسْمُوكَاتُ السَّيْعُ: ساتوں آسمان۔	السَّمِيعُ: مفتح۔ قید کیا ہوا (السَّمِيعُ) شیطان خبیث۔	السَّمِيعَةُ: شہرت۔ سنی ہوئی بات۔ کہا جاتا ہے "فَعَلْنَا رِيَاءً وَسَمْعَةً" اس نے یہ کام دکھانے اور سنانے کے لئے کیا۔
السَّمَلُ: (ن) سَمَلًا عَيْنُهُ: آنکھ پھوڑنا۔ السَّحْوَضُ: کچڑ وغیرہ سے صاف کرنا۔	السَّمِيعُ: مفتح۔ قید کیا ہوا (السَّمِيعُ) شیطان خبیث۔	السَّمِيعَةُ: شہرت۔ سنی ہوئی بات۔ کہا جاتا ہے "فَعَلْنَا رِيَاءً وَسَمْعَةً" اس نے یہ کام دکھانے اور سنانے کے لئے کیا۔
السَّمَلُ: (ن) سَمُولًا وَسَمُولَةٌ وَسَمَلٌ (ك) سَمَالَةٌ: کپڑے کا پرانا بوسیدہ ہوتا۔ صفت (سَمَلٌ) السَّمَلُ: حوض کا تھوڑا پانی دینا۔	السَّمِيعُ: مفتح۔ قید کیا ہوا (السَّمِيعُ) شیطان خبیث۔	السَّمِيعَةُ: شہرت۔ سنی ہوئی بات۔ کہا جاتا ہے "فَعَلْنَا رِيَاءً وَسَمْعَةً" اس نے یہ کام دکھانے اور سنانے کے لئے کیا۔
السَّمَلُ: حوض کا تھوڑا پانی دینا۔ السَّمَلُ: حوض کا تھوڑا پانی دینا۔	السَّمِيعُ: مفتح۔ قید کیا ہوا (السَّمِيعُ) شیطان خبیث۔	السَّمِيعَةُ: شہرت۔ سنی ہوئی بات۔ کہا جاتا ہے "فَعَلْنَا رِيَاءً وَسَمْعَةً" اس نے یہ کام دکھانے اور سنانے کے لئے کیا۔
السَّمَلُ: حوض کا تھوڑا پانی دینا۔ السَّمَلُ: حوض کا تھوڑا پانی دینا۔	السَّمِيعُ: مفتح۔ قید کیا ہوا (السَّمِيعُ) شیطان خبیث۔	السَّمِيعَةُ: شہرت۔ سنی ہوئی بات۔ کہا جاتا ہے "فَعَلْنَا رِيَاءً وَسَمْعَةً" اس نے یہ کام دکھانے اور سنانے کے لئے کیا۔
السَّمَلُ: حوض کا تھوڑا پانی دینا۔ السَّمَلُ: حوض کا تھوڑا پانی دینا۔	السَّمِيعُ: مفتح۔ قید کیا ہوا (السَّمِيعُ) شیطان خبیث۔	السَّمِيعَةُ: شہرت۔ سنی ہوئی بات۔ کہا جاتا ہے "فَعَلْنَا رِيَاءً وَسَمْعَةً" اس نے یہ کام دکھانے اور سنانے کے لئے کیا۔
السَّمَلُ: حوض کا تھوڑا پانی دینا۔ السَّمَلُ: حوض کا تھوڑا پانی دینا۔	السَّمِيعُ: مفتح۔ قید کیا ہوا (السَّمِيعُ) شیطان خبیث۔	السَّمِيعَةُ: شہرت۔ سنی ہوئی بات۔ کہا جاتا ہے "فَعَلْنَا رِيَاءً وَسَمْعَةً" اس نے یہ کام دکھانے اور سنانے کے لئے کیا۔
السَّمَلُ: حوض کا تھوڑا پانی دینا۔ السَّمَلُ: حوض کا تھوڑا پانی دینا۔	السَّمِيعُ: مفتح۔ قید کیا ہوا (السَّمِيعُ) شیطان خبیث۔	السَّمِيعَةُ: شہرت۔ سنی ہوئی بات۔ کہا جاتا ہے "فَعَلْنَا رِيَاءً وَسَمْعَةً" اس نے یہ کام دکھانے اور سنانے کے لئے کیا۔
السَّمَلُ: حوض کا تھوڑا پانی دینا۔ السَّمَلُ: حوض کا تھوڑا پانی دینا۔	السَّمِيعُ: مفتح۔ قید کیا ہوا (السَّمِيعُ) شیطان خبیث۔	السَّمِيعَةُ: شہرت۔ سنی ہوئی بات۔ کہا جاتا ہے "فَعَلْنَا رِيَاءً وَسَمْعَةً" اس نے یہ کام دکھانے اور سنانے کے لئے کیا۔
السَّمَلُ: حوض کا تھوڑا پانی دینا۔ السَّمَلُ: حوض کا تھوڑا پانی دینا۔	السَّمِيعُ: مفتح۔ قید کیا ہوا (السَّمِيعُ) شیطان خبیث۔	السَّمِيعَةُ: شہرت۔ سنی ہوئی بات۔ کہا جاتا ہے "فَعَلْنَا رِيَاءً وَسَمْعَةً" اس نے یہ کام دکھانے اور سنانے کے لئے کیا۔
السَّمَلُ: حوض کا تھوڑا پانی دینا۔ السَّمَلُ: حوض کا تھوڑا پانی دینا۔	السَّمِيعُ: مفتح۔ قید کیا ہوا (السَّمِيعُ) شیطان خبیث۔	السَّمِيعَةُ: شہرت۔ سنی ہوئی بات۔ کہا جاتا ہے "فَعَلْنَا رِيَاءً وَسَمْعَةً" اس نے یہ کام دکھانے اور سنانے کے لئے کیا۔
السَّمَلُ: حوض کا تھوڑا پانی دینا۔ السَّمَلُ: حوض کا تھوڑا پانی دینا۔	السَّمِيعُ: مفتح۔ قید کیا ہوا (السَّمِيعُ) شیطان خبیث۔	السَّمِيعَةُ: شہرت۔ سنی ہوئی بات۔ کہا جاتا ہے "فَعَلْنَا رِيَاءً وَسَمْعَةً" اس نے یہ کام دکھانے اور سنانے کے لئے کیا۔
السَّمَلُ: حوض کا تھوڑا پانی دینا۔ السَّمَلُ: حوض کا تھوڑا پانی دینا۔	السَّمِيعُ: مفتح۔ قید کیا ہوا (السَّمِيعُ) شیطان خبیث۔	السَّمِيعَةُ: شہرت۔ سنی ہوئی بات۔ کہا جاتا ہے "فَعَلْنَا رِيَاءً وَسَمْعَةً" اس نے یہ کام دکھانے اور سنانے کے لئے کیا۔
السَّمَلُ: حوض کا تھوڑا پانی دینا۔ السَّمَلُ: حوض کا تھوڑا پانی دینا۔	السَّمِيعُ: مفتح۔ قید کیا ہوا (السَّمِيعُ) شیطان خبیث۔	السَّمِيعَةُ: شہرت۔ سنی ہوئی بات۔ کہا جاتا ہے "فَعَلْنَا رِيَاءً وَسَمْعَةً" اس نے یہ کام دکھانے اور سنانے کے لئے کیا۔
السَّمَلُ: حوض کا تھوڑا پانی دینا۔ السَّمَلُ: حوض کا تھوڑا پانی دینا۔	السَّمِيعُ: مفتح۔ قید کیا ہوا (السَّمِيعُ) شیطان خبیث۔	السَّمِيعَةُ: شہرت۔ سنی ہوئی بات۔ کہا جاتا ہے "فَعَلْنَا رِيَاءً وَسَمْعَةً" اس نے یہ کام دکھانے اور سنانے کے لئے کیا۔

کا بقید۔

السَّمُولُ: پرانا بوسیدہ کپڑا۔

السَّمُولَةُ: چھوٹی پیالی۔

السَّمُولُ: وسیع زمین۔ نرم مٹی والی زمین۔

سَمْلَجُ: اللَّيْنُ فِي حَلْقِهِ: آسانی سے لگنا۔

السَّمْلَجُ وَالسَّمَالِجُ: میٹھا دودھ۔

السَّمْلَعُ: بھیر یا۔ بد اور خبیث کے لئے بھی بولتے ہیں۔

السَّمْلِقُ: ہموار و نچرز میں۔

سَمِنٌ: (س) سَمِنًا وَسَمَانَةً: موٹا ہونا۔

صفت (سَمِنٌ وَسَمِينٌ) نَجِ سَمَانٌ.

سَمَنٌ: (ن) سَمِنًا وَسَمَنٌ: الطَّعَامُ: کھجی

ذاتِ السَّمَنِ: موٹا کرنا۔ سَمَنَ الْقَوْمَ: کھجی

کا تو شہ دینا۔ سَمَنَ لَهُ: بہت دینا۔

أَسَمَنَ: موٹا ہونا۔ بہت کھجی والا ہونا۔ موٹے

جانوروں والا ہونا۔ موٹا جانور خریدنا یا اس کا

مالک ہونا یا اسے بہہ کرنا۔

..... الْقَوْمَ: گھوڑے کو موٹا کرنا۔ الخَيْرُ:

روٹی کھجی میں تر کرنا۔ الرَّجُلُ: کھجی کھلانا۔

تَسَمَّنَ: موٹا ہونا۔ بغیر شرافت کے مدعی

شرافت ہونا۔

إِسْتَسَمَّنَ: اپنے لئے کھجی طلب کرنا۔

.....: ہونا پانا یا کھجنا اور اسی سے مثال ہے

"إِسْتَسَمَّنَتْ ذَاوَرَمَ" تم نے سوچے ہوئے

کو موٹا سمجھ لیا۔ اس موقع پر بولتے ہیں جبکہ

کوئی شخص حقیقت واقعہ کے خلاف محض ظاہر

سے دھوکا کھا جائے۔

السَّامِنُ: فَا۔ بہت کھجی والا (فَاعِلٌ ذِي كَذَا

بَابُ تَأْبِيرٍ وَلَا يَنْبَغِي)۔

السَّمْنُ: مَمْسٌ۔ کھجی۔ نَجِ أَسْمُنٌ وَسَمُونٌ

سَمْنَانٌ.

السَّمَانُ: کھجی بیچنے والا۔

السَّمْنَةُ: کھجی۔ یہ السمن سے خاص ہے۔

السَّمْنَةُ: موٹا کرنے والی ایک دوا۔

ایک قسم کی گھاس جس کے دانے فلفل کی

طرح ہوتے ہیں اور اس کو غور میں فریبی کے

لئے استعمال کرتی ہیں۔

السَّمِينُ: مَوْنَا..... مِنَ الْكَلَامِ: باموقع

گفتگو۔

السَّمِينَةُ: السَّمِينُ: كَا مَوْنَتْ - نَجِ سَمَانٌ.

أَرْضٌ سَمِينَةٌ: بغير پتھر والی زمین۔

السَّمِينُ: پیدائشی موٹا۔

طَعَامٌ (مُسَمَّنَةٌ) موٹا کرنے والی خوراک۔

السَّمَانِيُّ: تیسری قسم کا ایک پرندہ۔ واحد و جمع

دونوں کے لئے اور کہا گیا ہے کہ واحد

(سَمَانَاةٌ) ہے نَجِ سَمَانِيَاتٍ.

السَّمَنْجُونِيُّ: آسانی رنگ والا۔ (جدید)

السَّمْنَدُ وَالسَّمْنَدَلُ وَالسَّمْنَدَلُ: ایک قسم کا

پرندہ۔

سَمَمَةٌ: (ف) سَمَمُوْهَا: مدہوش ہونا۔

السَّمْرَسُ: گھوڑے کا بغیر تھکن کے بہت تیز

دوڑنا۔

سَمَمَةٌ: الْإِبِلُ: بیکار چھوڑ دینا۔ صفت مقعولی

(سَمَمَةٌ)

السَّمَامَةُ: حیران۔ نَجِ سَمَمَةٌ.

السَّمَهِيُّ: فضاء آسانی۔ تر مرے۔ (یعنی وہ

چیز جو گرمی کے زمانہ میں فضاء آسانی سے

کھڑی کے جا لے کی مانند اترتی ہوئی معلوم

ہوتی ہے)

(.....) وَالسَّمَمَةُ وَالسَّمَهِيُّ وَالسَّمَهِيُّ

وَالسَّمَهِيَّاءُ وَالسَّمَهِيَّاءُ: جھوٹی اور باطل

چیزیں۔

سَمَهَجٌ: كَلَامُهُ: جھوٹ بولنا۔ الخَيْلُ: رسی

مضبوط بنانا۔ السَّمِيَّ: جھوڑنا۔

..... السَّمْرَاهِمُ: روان دینا۔ السَّمِينُ: قسم

میں سختی کرنا۔

السَّمَهَاجُ: جھوٹ۔

السَّمَهْدُ: السَّمَامُ: کوہان کا بڑا ہونا۔

السَّمَهْدُ: خُتْجٌ وَخَتٌ خَيْرٌ۔

السَّمَهْدُ وَالسَّمَهْدُ: بڑے ڈیل ڈول کا

اونٹ۔

السَّمَهْرُ: مضبوط و سخت ہونا۔ نیزہ کی طرح

سیدھا ہونا۔ السَّمَلَامُ: بہت اندھیرا ہونا۔

السَّمَهْرِيُّ: مضبوط نیزہ۔ کہا جاتا ہے "رُفْعُ

السَّمَهْرِيُّ وَرِمَاحٌ سَمَهْرِيَّةٌ" قَدْ سَمَهْرِيٌّ:

معتدل قد۔

سَمَا يَسْمُو سُمُوًا: بلند ہونا۔ السَّمْرُ:

اٹھنا۔ کہا جاتا ہے "سَمَوْتُ إِلَيْهِ بَصْرِي"

اس کی طرف میں نے نگاہ اٹھائی" و "سَمَا

إِلَيْهِ بَصْرِي" اس کی طرف میری نگاہ اٹھی۔

و "نَفْسُهُ تَسْمُو إِلَى مَعَالِي الْأُمُورِ" اس کا

نفس بڑے بڑے امور کی طرف مائل ہے

.....: بے بلند کرنا۔ السَّمْرُ: شکار کے لئے جانا

(سَمَا يَسْمُو سَمُوًا) الرَّجُلُ زَيْدًا وَبَزَيْدًا:

نام رکھنا۔

سَمَى: الرَّجُلُ زَيْدًا أَوْ بَزَيْدًا: نام رکھنا۔

السَّمْرُ فِي الْعَمَلِ: کام شروع کرنے

والے کا اللہ کا نام لینا۔

أَسَمَى: الشَّيْءُ: بلند کرنا۔ الرَّجُلُ زَيْدًا

وَبَزَيْدًا: نام رکھنا۔ هُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ:

روانہ کرنا۔

سَمَى مُسَامَلَةً: الرَّجُلُ: فخر کرنے میں

مقابلہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ لَا

يُسَامِي" فلاں سے فخر میں مقابلہ نہیں کیا جا

سکتا۔

تَسَامَى تَسَامِيًا: الْقَوْمُ: باہم فخر کرنا۔ ایک

دوسرے کو نام لے کر پکارنا۔ عَلِيٌّ

الْخَيْلُ: گھوڑے پر سوار ہونا۔

تَسَمَى: نام پانا۔ السَّمَى وَالْقَوْمُ: منسوب

ہونا۔

إِسْتَسَمَى: السَّمَاءُ: شکار کی جرابیں

پہننا۔ شکار کرنا۔ ہ: کسی کی زیارت کو جانا۔

کسی کے اندر خیر و صلاح معلوم کرنا۔

إِسْتَسَمَى: السَّمَاءُ: نام پوچھنا۔

السَّمِي: فَا۔ نَجِ سَمُونٌ وَسَمَاءَةٌ: مَوْنَتْ

سَامِيَّةٌ: نَجِ سَامِيَّاتٌ وَسَوَامٌ: کہا جاتا ہے

"رَدَدْتُ مِنْ سَامِيٍّ طَرَفَهُ" یعنی میں نے

اس کے سخت و غرور کو توڑ دیا۔ السَّمِي:

شکار کی اونٹنی جراب پہنے ہوئے شکاری۔ نَجِ

سَمَاءَةٌ.

السَّمَاءُ: آسمان۔ فضاء واسع جوزمین کو

احاطہ کئے ہوئے ہو۔ ہر وہ چیز جو تم سے اوپر ہو۔ گھوڑے کی پیٹھ۔ ہر چیز کی چھت۔ بارش۔ بادل گھاس۔ نیکیوں کی روجوں کے رہنے کی جگہ۔ سَمَاوَاتِ وَسَمَوَاتِ: (الف کو صرف کتابت میں حذف کر کے) وَسُمُیِّ وَأَسْمِیَّة (..... وَالسَّمَاءُ) گھر کا گچھ۔ وَسَمَاوَةٌ كَلْبٌ شَىءٌ: ہر چیز کا ڈھانچہ۔ السَّمَاءُ: اچھی شہرت۔ کہا جاتا ہے "شَاغٌ سَمَاهُ" اس کی شہرت و نیک نامی پھیل گئی۔

الإِسْمُ وَالْأَسْمُ: نام۔ وہ لفظ جو کسی جو ہر یا عرض کی عین و تمیز کے لئے وضع کیا گیا ہو۔ اس کا ہمزہ حمزہ وصل ہے۔ سَمَاءُ السَّمَاءِ وَأَسْمَاءُ وَأَسْمَاءِ وَأَسْمَاوَاتٍ أَوْرَبَسَمَلَهُ میں ہمزہ کو حذف کر دیتے ہیں اور دوسری جگہ باقی رکھتے ہیں۔ سَمَلَهُ: کے معنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

اسم الجلالة: باری تعالیٰ کا نام۔ السَّمُ وَالسِّمُّ وَالسُّمُّ: اسم کے لغات۔ کہا جاتا ہے "هَذَا سَمُهُ" یعنی یہ اس کا نام ہے۔ السُّمِيُّ: بلند ہونے والا۔ سُمِيكٌ: ہم نام نظیر۔

سَمَلَةٌ: عیسائیوں کے نزدیک باپ بیٹے اور روح مَدُوس کے نام پڑھنا۔ مسلمانوں کے نزدیک: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ الْإِسْمِیَّةُ: ان فلاسفہ کا مذہب جو کہ اجناس اور انواع کے بذات خود وجود یا حقیقت کا انکار کرتے ہیں۔

السَّمَوِيُّ: اسم کی جانب منسوب۔ الْمَسْمُومَةُ: شکاری کی اونی جراب۔ الْمُسْمَى: مفع۔ معین۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مِنْ مُسْمَى قَوْمِهِ وَمِنْ مُسْمَاتِهِمْ" وہ قوم کے بہترین لوگوں میں سے ہے۔

سَمَنٌ (ن) سَمَنًا: السَّجِّینُ: چھری تیز کرنا۔ "هَذَا مِمَّا يَسْنُكُ عَلٰی طَعَامٍ" بیان چیزوں میں سے ہے جو تمہیں کھانے کی رغبت دلاتی ہے..... الرُّمُحُ: تیر پر پھل لگانا..... الْإِسْتَانُ: مسواک کرنا..... الْعُقْدَةُ: گرہ

كھولنا..... الْإِبْسَلُ: اونٹ کو تیز یا لگنا..... الْعَرَجُجُلُ: کسی کو بھالا مارنا۔ دانت سے کاٹنا۔ دانت توڑنا۔ حد سے زیادہ تعریف کرنا۔ الْإِمْرُ: ظاہر کرنا۔ آسان کرنا۔ جاری کرنا۔

..... السَّطْرِيْقَةُ: طریقہ اختیار کرنا..... عَلَيْهِمْ السَّنَةُ: طریقہ مقرر کرنا..... السَّطِيْنُ: مٹی کا برتن وغیرہ بنانا..... الشَّيْءُ: تصویر بنانا..... الْمَاءُ أَوْ السَّرَابُ: پانی یا مٹی آہستہ آہستہ کرنا۔

..... الْعَيْنُ الدَّمْعُ: آنکھ کا آنسو بنانا..... الْإِبْسُورُ رَعِيْتُهُ: بہتر انتظام کرنا۔ کہا جاتا ہے "سَنُّ فُلَانٍ طَرِيْقًا مِنَ الْخَيْرِ" فلاں نے خیر کا طریقہ جاری کیا جس کو اس کی قوم پہلے سے نہیں جانتی تھی۔

سُنَّتِ: الارض: زمین کا چرنے سے صاف ہونا۔

سُنَّتِنُ: السَّيْحَانُ: چھری تیز کرنا۔ صیقل کرنا۔ الرُّمُحُ: نیزے پر پھل لگانا..... الرُّمُحُ إِلَيْهِ: کسی کے سامنے نیزہ کرنا..... السَّقُولُ: اچھی گفتگو کرنا..... الْإِسْتَانُ: مسواک کرنا۔

أَسَنُ: الرَّجُلُ: بوڑھا ہونا..... الضَّيْبِيُّ: بیٹے کا دانت لگنا..... أَسَنُ اللّٰهِ سِنَةٌ: دانت اگانا..... الْمَاءُ: پانی گرانا..... الرُّمُحُ: نیزے پر پھل لگانا۔

إِسْتَنَّ: الْمَاءُ: پانی گرانا..... السَّطْرِيْقُ: راستہ واضح ہونا..... السَّقْرَسُ: گھوڑوں کا آگے پیچھے دوڑنا..... السَّرَابُ: سراب کا چمکانا۔ کہا جاتا ہے "إِسْتَنَّ بِهِ الْهُوَيُّ حَيْثُ أَرَادَ" یعنی اس کو خواہش نفس ہر طرف لے گئی..... السَّرَجُلُ: دانتوں کو خلال کر کے صاف کرنا۔ (..... وَتَسَنَّ) بِسُنِّيْتِهِ: عمل کرنا۔ بیرونی کرنا اور اسی سے ہے "إِسْتَنَّ بِسِنَةِ فُلَانٍ" اس نے فلاں کی سیرت کی پیروی کی۔ وَتَسَنَّ فِي عَدُوِّهِ: اپنے رخ پر دوڑنا۔ إِمْتَسَنَّ: زیادہ عمر والا ہونا..... السَّطْرِيْقَةُ: طریقہ اختیار کرنا..... السَّطْرِيْقِيُّ: آمدورفت

والا ہونا..... الْعَيْنُ: بہتے ہوئے آنسو والی ہونا..... بِسُنِّيْتِهِ: تلوار کو حرکت دینا..... بِالنَّشِيِّ: تابعداری کرنا۔

السِّنُّ: نَجَ اسْنَانٍ وَأَسْنَةُ اسْنٌ: دانت (مؤنث) (دانتی یا مٹی وغیرہ کا دندانہ۔ لہسن کا جوا۔ قلم میں تراشنے کی جگہ۔ ریزھ کی بڈیوں کا کنارہ۔ چریدگی اور اسی سے ہے "أَعْطُوا السِّنَّ حَظَّهَا مِنَ السِّنِّ" یعنی جانوروں کو ان کے چرنے کا حق دو۔ نَجَ اسْنَانُ: عمر (مؤنث) کہا جاتا ہے "طَعَنَ وَطَعَنَ فِي سِنِّهِ" یعنی وہ بوڑھا ہو گیا۔ "هُوَ حَدِيْثُ السِّنِّ" وہ نئی عمر کا ہے "هُوَ كَبِيْرُ السِّنِّ وَكَبِيْرَتُ سِنِّهِ" وہ بوڑھا ہے و "هُوَ سِنٌ فُلَانٍ" وہ فلاں کا ہم عمر ہے۔ وَ"لَهُ ابْنٌ سِنٌ إِبْنِكَ وَ أَوْلَادٌ اسْنَانُ نَبِيْكَ" اس کے لڑکے تمہارے لڑکوں کے ہم عمر ہیں۔

السِّنُّ: طریقہ۔ کہا جاتا ہے "اسْتَقَامَ فُلَانٌ عَلٰی سُنَنِ وَاحِدٍ" فلاں ایک ہی طریقہ پر قائم رہا..... اِمْضُ عَلٰی سُنَّتِكَ" تم اپنے طریقہ پر چلے چلو "مَرَّ السُّهُمُ فِي سِنِّهِ" تیر سیدھا نکل گیا ادھر ادھر نہیں ہوا۔ (..... وَالسِّنُّ وَالسِّنُّ وَالسِّنُّ) مِنْ السَّنَةِ: كشاده راستہ۔ بزار راستہ۔ چیتا۔

السَّنَةُ: خصلت۔ طریقہ۔ طبیعت۔ شریعت۔ چہرہ یا اس کا دائرہ۔ نَجَ سُنُّنُ.

أَهْلُ السَّنَةِ: وہ لوگ جو حضرت ابو بکر صدیقؓ عمر فاروقؓ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہم کی خلافت کے قائل ہیں۔

السُّنِّيَّةُ: اسلام کا ایک بڑا فرقہ جو سنت کی جانب منسوب ہے۔ واحد (سُنِّي) السِّنَةُ: دوسروں والا کھانا۔ سِنَةُ مِنَ التَّوْمِ: لہسن کا ایک جوا۔

السِّنَانُ: نیزے کا پھل۔ نَجَ اسْنَةُ: السِّنَانُ: سان۔ کہا جاتا ہے "سَنُّنٌ سَيَحْنِيْتُهُ بِالسِّنَانِ" اس نے اپنی چھری کو سان سے تیز کیا۔

<p>(.....سُنُوخًا وَسَانِحٌ وَسَانِحًا وَمُسَانِحَةٌ) الطَّيْرُ أَوْ الظُّفِيُّ: پرندہ یا ہرن کا بائیں سے دائیں طرف گزرتا۔</p>	<p>تلاش کی۔ سُنْبَلٌ: الزَّرْعُ: خوشوں والی ہونا۔الزُّجْلُ قُوْبَةٌ: کپڑے کو لٹکا کر کھینچنا۔</p>	<p>السُّنُونُ: سَنَنٌ۔ السُّنَيْنُ: سان پر تیز کیا ہوا۔ پتھر کے رگڑنے سے جو گرے وہ زمین جس کی گھاس کو چر لیا گیا ہو۔ سَيْنُ الْمَرْءِ: ہم عمر۔ مَوْتٌ سَيْنَةٌ السَّيْنَةُ: ایک طرز پر چلنے والی ہوا۔ ریت کا بلند ٹیلہ۔ ج سَنَانٌ۔</p>
<p>تَسْنَحُ: مِنَ الرِّيحِ: ہوا کی طرف پشت پھیرتا۔ تَسْنَحُهُ وَاسْتَسْنَحَهُ: عَنِ كَذَا: کھود کر دید کرتا۔</p>	<p>السُّنْبَلُ: مِنَ الزَّرْعِ كَالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ: خوشہ بالی۔ واحد (سُنْبَلَةٌ) ج سَنَابِلُ وَسُنْبَلَاتٌ: ایک خوشبودار گھاس۔ السُّنْبَلُ الرُّؤْمِيُّ: ایک خوشبودار بوٹی و السُّنْبَلَةُ: آسمان کے ایک برج کا نام۔</p>	<p>السَّمِينُ: مِنَ الدَّوَابِّ: بڑی عمر والا جانور۔ ج مَسَانٌ۔ السُّنُونُ: مَبْعٌ - حَمًا سُنُونُ: بدبودار کچھڑ رَجُلٌ سُنُونٌ الوُجْهِ: چمکدار کتابی چہرے والا۔ مَرْمَرٌ سُنُونٌ: نرم چمکنا کیا ہوا سنگ مرمر۔</p>
<p>السُّنْحُ: مَعْسٌ - بَرَكَةٌ:مِنَ الطَّرِيقِ: درمیانی راہ۔ السَّنَاحُ: قَا - بَائِمٌ جَانِبٌ سَے آنے والا۔ اور اس کے مقابلہ میں بَارِحٌ ہے۔ جس کے معنی ہیں دائیں جانب سے آنے والا۔</p>	<p>سَنَتْ: القَدْرُ: ہانڈی میں زیرہ ڈالنا۔ سَانَتُوا: الْأَرْضُ: نباتات تلاش کرنا۔ عَامٌ (سَنِتٌ وَسَنِتٌ مُسِنِتٌ) قَطْ سَالِي - رَجُلٌ سَنِتٌ: بے نفع مرد۔</p>	<p>السُّنُونُ: مَبْعٌ - حَمًا سُنُونُ: بدبودار کچھڑ رَجُلٌ سُنُونٌ الوُجْهِ: چمکدار کتابی چہرے والا۔ مَرْمَرٌ سُنُونٌ: نرم چمکنا کیا ہوا سنگ مرمر۔</p>
<p>عرب "سَنَاحٌ" سے نیک شگون اور "بَارِحٌ" سے بد شگون لیا کرتے تھے اور اسی سے مثال ہے "مَنْ لِي بِالسَّنَاحِ بَعْدَ الْبَارِحِ" یعنی میرے لئے منحوس کے بعد مبارک کا ضامن کون ہوگا۔ اس کو مکروہ کے بعد محبوب کی توقع کے موقع پر بولتے ہیں۔</p>	<p>السُّنُونُ: مَبْعٌ - حَمًا سُنُونُ: بدبودار کچھڑ رَجُلٌ سُنُونٌ الوُجْهِ: چمکدار کتابی چہرے والا۔ مَرْمَرٌ سُنُونٌ: نرم چمکنا کیا ہوا سنگ مرمر۔</p>	<p>طَرِيقٌ (مُسْتَسِنٌ وَمُسْتَسَنٌ) آد اور رفت والا راستہ۔ مُسْتَسِنٌ: الطَّرِيقُ: راستہ کا نمایاں حصہ۔ المُسْتَسِنُ: شِرٌّ۔ السَّنَابُ: نَخْتٌ بَرَائِي۔ السَّنَابُ وَالسَّنَابَةُ: لمبی پیٹھ اور پیٹ والا۔ السَّنَبُ: بہت دوڑنے والا۔ السَّنَبُ وَالسَّنْبَةُ وَالسَّنْبَةُ: زمانہ کا ایک حصہ۔</p>
<p>السَّنِيحُ: بَائِمٌ جَانِبٌ سَے آنے والا۔ سوئی۔ زیور۔ ج سُنْحُ۔ السَّنَحِيحُ: رات کو نہ سونے والا۔ سَنَحُ: (ف) سُنُوخًا: فِي الْعِلْمِ: رَاخٌ ہونا۔</p>	<p>سَنَتْ: القَدْرُ: ہانڈی میں زیرہ ڈالنا۔ سَانَتُوا: الْأَرْضُ: نباتات تلاش کرنا۔ عَامٌ (سَنِتٌ وَسَنِتٌ مُسِنِتٌ) قَطْ سَالِي - رَجُلٌ سَنِتٌ: بے نفع مرد۔</p>	<p>طَرِيقٌ (مُسْتَسِنٌ وَمُسْتَسَنٌ) آد اور رفت والا راستہ۔ مُسْتَسِنٌ: الطَّرِيقُ: راستہ کا نمایاں حصہ۔ المُسْتَسِنُ: شِرٌّ۔ السَّنَابُ: نَخْتٌ بَرَائِي۔ السَّنَابُ وَالسَّنَابَةُ: لمبی پیٹھ اور پیٹ والا۔ السَّنَبُ: بہت دوڑنے والا۔ السَّنَبُ وَالسَّنْبَةُ وَالسَّنْبَةُ: زمانہ کا ایک حصہ۔</p>
<p>السَّنِيحُ: بَائِمٌ جَانِبٌ سَے آنے والا۔ سوئی۔ زیور۔ ج سُنْحُ۔ السَّنَحِيحُ: رات کو نہ سونے والا۔ سَنَحُ: (ف) سُنُوخًا: فِي الْعِلْمِ: رَاخٌ ہونا۔</p>	<p>سَنَتْ: القَدْرُ: ہانڈی میں زیرہ ڈالنا۔ سَانَتُوا: الْأَرْضُ: نباتات تلاش کرنا۔ عَامٌ (سَنِتٌ وَسَنِتٌ مُسِنِتٌ) قَطْ سَالِي - رَجُلٌ سَنِتٌ: بے نفع مرد۔</p>	<p>طَرِيقٌ (مُسْتَسِنٌ وَمُسْتَسَنٌ) آد اور رفت والا راستہ۔ مُسْتَسِنٌ: الطَّرِيقُ: راستہ کا نمایاں حصہ۔ المُسْتَسِنُ: شِرٌّ۔ السَّنَابُ: نَخْتٌ بَرَائِي۔ السَّنَابُ وَالسَّنَابَةُ: لمبی پیٹھ اور پیٹ والا۔ السَّنَبُ: بہت دوڑنے والا۔ السَّنَبُ وَالسَّنْبَةُ وَالسَّنْبَةُ: زمانہ کا ایک حصہ۔</p>
<p>السَّنِيحُ: بَائِمٌ جَانِبٌ سَے آنے والا۔ سوئی۔ زیور۔ ج سُنْحُ۔ السَّنَحِيحُ: رات کو نہ سونے والا۔ سَنَحُ: (ف) سُنُوخًا: فِي الْعِلْمِ: رَاخٌ ہونا۔</p>	<p>سَنَتْ: القَدْرُ: ہانڈی میں زیرہ ڈالنا۔ سَانَتُوا: الْأَرْضُ: نباتات تلاش کرنا۔ عَامٌ (سَنِتٌ وَسَنِتٌ مُسِنِتٌ) قَطْ سَالِي - رَجُلٌ سَنِتٌ: بے نفع مرد۔</p>	<p>طَرِيقٌ (مُسْتَسِنٌ وَمُسْتَسَنٌ) آد اور رفت والا راستہ۔ مُسْتَسِنٌ: الطَّرِيقُ: راستہ کا نمایاں حصہ۔ المُسْتَسِنُ: شِرٌّ۔ السَّنَابُ: نَخْتٌ بَرَائِي۔ السَّنَابُ وَالسَّنَابَةُ: لمبی پیٹھ اور پیٹ والا۔ السَّنَبُ: بہت دوڑنے والا۔ السَّنَبُ وَالسَّنْبَةُ وَالسَّنْبَةُ: زمانہ کا ایک حصہ۔</p>
<p>السَّنِيحُ: بَائِمٌ جَانِبٌ سَے آنے والا۔ سوئی۔ زیور۔ ج سُنْحُ۔ السَّنَحِيحُ: رات کو نہ سونے والا۔ سَنَحُ: (ف) سُنُوخًا: فِي الْعِلْمِ: رَاخٌ ہونا۔</p>	<p>سَنَتْ: القَدْرُ: ہانڈی میں زیرہ ڈالنا۔ سَانَتُوا: الْأَرْضُ: نباتات تلاش کرنا۔ عَامٌ (سَنِتٌ وَسَنِتٌ مُسِنِتٌ) قَطْ سَالِي - رَجُلٌ سَنِتٌ: بے نفع مرد۔</p>	<p>طَرِيقٌ (مُسْتَسِنٌ وَمُسْتَسَنٌ) آد اور رفت والا راستہ۔ مُسْتَسِنٌ: الطَّرِيقُ: راستہ کا نمایاں حصہ۔ المُسْتَسِنُ: شِرٌّ۔ السَّنَابُ: نَخْتٌ بَرَائِي۔ السَّنَابُ وَالسَّنَابَةُ: لمبی پیٹھ اور پیٹ والا۔ السَّنَبُ: بہت دوڑنے والا۔ السَّنَبُ وَالسَّنْبَةُ وَالسَّنْبَةُ: زمانہ کا ایک حصہ۔</p>
<p>السَّنِيحُ: بَائِمٌ جَانِبٌ سَے آنے والا۔ سوئی۔ زیور۔ ج سُنْحُ۔ السَّنَحِيحُ: رات کو نہ سونے والا۔ سَنَحُ: (ف) سُنُوخًا: فِي الْعِلْمِ: رَاخٌ ہونا۔</p>	<p>سَنَتْ: القَدْرُ: ہانڈی میں زیرہ ڈالنا۔ سَانَتُوا: الْأَرْضُ: نباتات تلاش کرنا۔ عَامٌ (سَنِتٌ وَسَنِتٌ مُسِنِتٌ) قَطْ سَالِي - رَجُلٌ سَنِتٌ: بے نفع مرد۔</p>	<p>طَرِيقٌ (مُسْتَسِنٌ وَمُسْتَسَنٌ) آد اور رفت والا راستہ۔ مُسْتَسِنٌ: الطَّرِيقُ: راستہ کا نمایاں حصہ۔ المُسْتَسِنُ: شِرٌّ۔ السَّنَابُ: نَخْتٌ بَرَائِي۔ السَّنَابُ وَالسَّنَابَةُ: لمبی پیٹھ اور پیٹ والا۔ السَّنَبُ: بہت دوڑنے والا۔ السَّنَبُ وَالسَّنْبَةُ وَالسَّنْبَةُ: زمانہ کا ایک حصہ۔</p>
<p>السَّنِيحُ: بَائِمٌ جَانِبٌ سَے آنے والا۔ سوئی۔ زیور۔ ج سُنْحُ۔ السَّنَحِيحُ: رات کو نہ سونے والا۔ سَنَحُ: (ف) سُنُوخًا: فِي الْعِلْمِ: رَاخٌ ہونا۔</p>	<p>سَنَتْ: القَدْرُ: ہانڈی میں زیرہ ڈالنا۔ سَانَتُوا: الْأَرْضُ: نباتات تلاش کرنا۔ عَامٌ (سَنِتٌ وَسَنِتٌ مُسِنِتٌ) قَطْ سَالِي - رَجُلٌ سَنِتٌ: بے نفع مرد۔</p>	<p>طَرِيقٌ (مُسْتَسِنٌ وَمُسْتَسَنٌ) آد اور رفت والا راستہ۔ مُسْتَسِنٌ: الطَّرِيقُ: راستہ کا نمایاں حصہ۔ المُسْتَسِنُ: شِرٌّ۔ السَّنَابُ: نَخْتٌ بَرَائِي۔ السَّنَابُ وَالسَّنَابَةُ: لمبی پیٹھ اور پیٹ والا۔ السَّنَبُ: بہت دوڑنے والا۔ السَّنَبُ وَالسَّنْبَةُ وَالسَّنْبَةُ: زمانہ کا ایک حصہ۔</p>

پہاڑ پر چڑھنا۔ سَنَدٌ لِأَزْعِينِ: چالیس کے قریب ہونا۔ سَنَدٌ ذَنْبِ النَّاقَةِ: اونٹنی کے دم کا دائیں بائیں سرین پر لگانا۔

سَنَدٌ: سَنَدٌ: (ایک قسم کی چادر) اوڑھنا۔
..... الشئ: ٹیک لگا کر مضبوط کرنا۔

سَانِدٌ مُسَانِدَةٌ وَسِنَادًا، شِعْرَةٌ فِي شِعْرِهِ: شعر میں مختلف ردیف لانا..... السَّرْجُلُ: مرد کرنا..... ه عَلَى الْعَمَلِ: کفایت کرنا..... ه إِلَى الشئ: ٹیک لگانا۔

أَسْنَدٌ، فِي الْجَبَلِ: پہاڑ پر چڑھنا..... ه فِي الْجَبَلِ: پہاڑ پر چڑھانا..... فِي الْعَدُوِّ: دوڑنے میں کوشش کرنا..... أَسْنَدَةٌ إِلَى الشئ: ٹیک لگانا۔

السَّنَدُ: ایک قسم کی چادر۔ سہارا اور مولدین کے نزدیک بمعنی دستاویز مستعمل ہے۔ سَنَدَاتٌ: پہاڑ کا وہ حصہ جو تمہارے مقابل ہو۔ سَنَادٌ: ایک قسم کی نباتات۔

السِّنَادُ: قافیہ کا ہر عیب جو حرف روی سے پہلے ہو۔ نَاقَةٌ سِنَادٌ: لمبی ناگوں والی اونٹنی۔ دلی قوی۔

الإسناد: بمص۔ عِنْدَ أَهْلِ الْمُنَاطِرَةِ: حوالہ دینا۔ سَنَانِيدٌ وَالْأَسْنَادُ فِي عِلْمِ الْعَرَبِيَّةِ: دو کلموں کے درمیان نسبت تامہ واقع کرنا جیسے مبتدا و خبر یا فعل و فاعل کے درمیان نسبت۔ جیسے زَيْدٌ قَائِمٌ وَقَائِمٌ زَيْدٌ۔

السَّنَدَانُ: نہائی۔ اہرن۔ سَنَادِيْنٌ (دخیل)

السَّنَدَانُ: بڑا اور مضبوط مرد۔ قوی بھیر یا۔ السَّنَدَانَةُ: گدھی۔

السَّنَدِيَانُ: شاہ بلوط کا درخت۔ واحد (سِنْدِيَانَةٌ) فارسی کلمہ ہے۔

السَّنِيدُ: لے پاک۔ منہ بولا بیٹا۔

المُسْنَدُ: مِنَ الْحَدِيثِ: جس کی سند قائل تک پہنچائی جائے۔ سَنَائِدٌ وَمَسَائِدٌ۔

المُسْنَدُ: ایک قسم کا طرز تحریر جس کو سَنَسُوْ حَیْضَرُ استعمال کرتے تھے۔ منہ بولا بیٹا۔

زمانہ۔ السَّنَدُ وَالْمُسْنَدُ: جس پر ٹیک لگائی جائے۔ سَنَائِدٌ كَمَا جَاءَتْ فِي "خُرُوجِ الْقَوْمِ (مُسْنَائِدِيْنٌ)" لوگ مختلف جھنڈوں کے نیچے ہو کر نکلے۔ کسی ایک امیر کے تحت میں نہیں تھے۔

المُسْتَنَدُ: جس پر اعتماد و بھروسہ کیا جائے۔ السِّنْدَاؤُ وَالسِّنْدَاؤَةُ: ہلکا۔ دلیر۔ پیش قدمی کرنے والا۔ پست قدم۔ موٹے سر اور پتلے جسم والا۔ السِّنْدَاؤَةُ: کپڑے کا ٹکڑا جس کو عمامہ کے نیچے تیل سے بچانے کے لئے باندھا جاتا ہے۔

جَمَلٌ (سَنَدَابٌ) قَوِيٌّ أَوْ رَخِيٌّ أَوْ نَثٌ۔ سَنَدَرٌ: جلدی کرنا۔

السَّنْدَرَةُ: بمص۔ جلدی۔ ایک درخت جس سے تیر و کمان بناتے ہیں۔ ایک قسم کا بڑا پیمانہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول "أَكْبَلِكُمْ بِالسِّنْدَرِ كَيْفَ السَّنْدَرَةُ" کا مطلب یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو بہت زیادہ قتل کروں گا۔

السَّنْدَرِيُّ: دلیر۔ لمبے قدم والا۔ مضبوط۔ کمان۔ نیلگوں۔ نیزہ۔ شیر۔ تلوار وغیرہ کا سفید پھل۔ بڑی آنکھوں والا۔ عمدہ۔

رَدِيٌّ۔ ایک بڑا پیمانہ (.....) وَالسَّنْدَرُ وَالسَّنْدَرُ: دلیر۔

السَّنْدَرُوسُ: ایک قسم کا گوند یا کھربا کی مانند ایک معدنی چیز۔

السَّنْدَسُ: ایک قسم کا ریشمی کپڑا۔

السَّنَدَلُ: ایک قسم کا پرندہ۔ چرمی موزہ کا پانچا ہے۔

سَنَدْرٌ (س) سَنَدْرًا: بدخلق ہونا۔ السَّنَوْرُ (س) سَنَوْرًا: بدخلق ہونا۔

السَّنَوْرُ: ایک تھپہا زرزہ کی مانند چمڑے کا پتلا ہوا لباس۔ لوہے کا ہر ایک تھپہا۔

السَّنَوْرُ: لمبی۔ سردار و دم کی جڑ۔ گردن کی ہڈی کے مہرے۔ سَنَائِنِيْرُ۔

السَّنَارُ: لمبی۔

سِنَسَنَتٌ، الرِّيحُ: ٹھنڈی ہوا چلنا۔

السِّنْسِنُ: پیاس۔ لمبی کی ہڈیوں کے سرے۔ سَنَسَانِسٌ (.....) وَالسِّنْسِنَةُ: ریزہ کی ہڈیوں کا کنارہ۔ کہا جاتا ہے "جَاءَتْ الرِّيحُ سَنَسَانِسٌ" ہوا ایک ہی طریقہ پر آئی۔

السَّنَطُ: (ک) سَنَاطَةٌ وَسِنَطٌ: (س) سَنَطًا: کوچ یا کچی داڑھی والا ہونا۔ صفت (سِنَاطٌ وَسِنَاطٌ وَسِنَوُطٌ) سَنَاطٌ وَسِنَاطٌ: سَنَاطٌ۔

السِّنَطُ: گنا۔ پتلیا۔ السَّنَطِيَّةُ: بے ڈول لمبائی۔

السِّنَطَابُ: لوہار کا ہتھوڑا۔ السِّنَطِيْرُ وَالسِّنَطُوْرُ: ایک قسم کا ستار جس کے تار تانے کے ہوتے ہیں۔

السَّنَطَلُ: الرِّجْلُ: سر جھکا کر چلنا۔ السَّنَطَلَةُ: بمص۔ لمبائی۔

السَّنَطَالَةُ: سر جھکا کر سکون کی چال۔ السَّنَطِيْلُ: لمبا۔

السَّنَطَلُ: مَشَعٌ: ست چال چلنے والا۔ جو قریب کرنے کے ہو۔ بے ڈول جسم کا بڑے پیمانے والا۔

السَّنَطَبُوْلُ: ایک پودے کا نام جس کا تامل نام پھول لگائی ہوتے ہیں۔

السَّنَطِيْلُ: لمبے قدم والا۔

السَّنَعُ: (ف ن) وَسَنَعٌ (ك) سَنَاعَةٌ وَسُنُوْعًا: حسین و خوبصورت ہونا۔ صفت مَذْرُوعٌ (سِنَعٌ) مَوْنَسٌ سِنِيْعَةٌ۔

السَّنَعُ: الغَلَامُ: لڑکے کا طویل و خوبصورت ہونا..... السَّرْجُلُ: خوبصورت بچوں والا ہونا۔

گئے کا درود والا ہونا..... السَّنِيْ: زیادہ کرنا۔

السِّنَعُ: گئے کے مقام کی بریدگی۔ گئے کا جوڑ۔ سَنَعَةٌ وَأَسْنَاعٌ۔

السِّنَعُ: خوبصورتی۔

الأسْنَعُ: لمبا۔ بلند۔ کہا جاتا ہے "هَذَا اسْنَعٌ مِنْ ذَاكُ" یہ اس سے افضل ہے۔ مَوْنَسٌ

مِنْ ذَاكُ" یہ اس سے افضل ہے۔ مَوْنَسٌ

سَنَاءٌ
السَّنِيعةُ: پہاڑی راستہ۔ رج سَنَاعٍ.
السَّنْعَةُ: نیولا۔ اوپر والے ہونٹ کے اندرونی حصہ میں ابھرا ہوا گوشت۔
سَنَفٌ: (ن ض) سَنَفًا: البَعِيرُ: اونٹ پر ٹنگ باندھنا..... السَّنَاقَةُ: اونٹنی کا اونٹ سے آگے نکل جانا۔
أَسْنَفٌ: البَعِيرُ: چلنے میں گردن آگے بڑھانا۔ أَسْنَفَتِ السَّنَاقَةُ: اونٹنی کا اونٹ سے آگے نکل جانا..... السَّرْبُوحُ: ہوا کا تیز چلنا۔
السَّرْفِيُّ: بجلی کا قریب ظاہر ہونا..... الْأَمْسَرُ: مضبوطی سے کرنا..... البَعِيرُ: ٹنگ باندھنا۔
السَّنْفُ: کھڑی جو پتوں سے خالی ہو، پھل کا چھلکا۔ بنا۔ رج سُنُوفٌ
السَّنْفُ: ایک تلخ دانہ جو گیہوں جو میں ہوتا ہے۔ جماعت۔ صنف۔ پھلی۔ واحد (سَنَفَةٌ) رج سِنْفٌ و سِنْفٌ و سِنْفَةٌ.
السَّنِيفُ: بچھونے کی گوٹ۔ ایک کپڑا جس کو اونٹ کے مونڈھوں پر باندھتے ہیں۔ رج سَنَفٌ و سَنَفٌ و سِنْفَةٌ.
السَّنِيفَةُ: من البینین: خشک سال۔ من الاراضی: قحط زدہ زمین۔
سِنَافٌ: البَعِيرُ: اونٹ کا ٹنگ۔ رج سُنْفٌ و سُنْفٌ و سِنْفَةٌ.
السَّنْفَتَانِ و السَّنْفَتَانِ: دو کھڑیاں جن میں کونئیں کی چرئی پھنسی ہوئی ہوتی ہے۔
السَّنِيفَانِ: وہ اونٹ جو کچا وہ کو ادھر ادھر کرتا ہو جس کی وجہ سے ٹنگ باندھنا پڑے۔ رج مَسَانِيفٌ.
سِنِيقٌ: (س) سَنَقًا: بدبھنی ہونا۔ (بقول بعض سِنِيقٌ: صرف حیوانات کے لئے مخصوص ہے۔)
أَسْنَقُهُ: النَعِيمُ: ناز و نعمت والا ہونا۔ خوش حال ہونا۔
السَّنْفَرُ و السَّنْفُو: ایک شکاری پرندہ جو شکرے سے بڑا اور خوبصورت ہوتا ہے۔
السَّنُكُ: نمایاں راستے۔

السَّنِيكْسَارُ و السَّنِيكْسَارُ: عِنْدَ النَّصْرَانِيِّينَ: نصرانیوں کے اولیاء و صالحین کے حالات کا مجموعہ جو گرجوں میں پڑھا جاتا ہے۔ (جدید)
سَنِيمٌ: (س) سَنَمًا: البَعِيرُ: بڑے کوہان والا ہونا..... النَّبْتُ: خوشہ یا پھول نکلنا۔
سَنَمٌ: الكَلْبُ البَعِيرُ: موٹے کوہان والا کر دینا..... الاِنَاءُ: برتن بھرنا..... السَّنِي: بلند کرنا..... القَبْرِ: قبر کو کوہان نما کرنا..... المِحْكِيَالُ: پیانہ کو بھر کر کوہان جیسا کر دینا۔
أَسْنَمٌ: الكَلْبُ البَعِيرُ: موٹے کوہان والا کر دینا..... الدَّخْسَانُ: دھوئیں کا بلند ہونا۔
أَسْنَمَتِ النَّارُ: آگ سے لپٹ اٹھنا۔
تَسْنَمٌ: السَّنَاقَةُ: اونٹنی کے کوہان پر سوار ہونا..... السَّنِي: کسی چیز پر چڑھنا..... فَلَانَسَا: غفلت میں پڑ لینا..... ه السَّنِيْبُ: بڑھانا۔ پھیل جانا۔
السَّنِيمُ: من الابل: بڑے کوہان والا اونٹ..... من النَّبَاتِ: زمین سے بلند شگوفے والے پودے۔
السَّنَامُ: کوہان۔ رج أَسْنِمَةٌ: کہا جاتا ہے "فَلَانٌ سَنَامٌ قَوْمُهُ" وہ اپنی قوم میں بڑا ہے۔
سَنَمَةٌ: النَّبَاتِ: نباتات کا اوپر کا حصہ جیسے بالی شگوفہ۔ زَجَلٌ (سَنِيمٌ) عالی مرتبہ مرد۔
السَّنَمُ: گائے۔
السَّنِيمُ: بخت کے ایک چشمہ کا نام۔
السَّنَمُ: من الجَمَالِ: اونٹ جس پر سواری نہ کی جائے۔
السَّنِيمَارُ: چاند۔ چور۔ رات میں نہ سونے والا۔
السَّنَمَوْرَةُ: ایک قسم کی چھلی جس کو نمک لگا کر خشک کرتے ہیں۔ (جدید)
سَنِيَةٌ: (س) سَنَهَا: بہت برسوں والا ہونا۔ صفت (سَنِيَةٌ)..... الطَّعَامُ أَوْ الشَّرَابُ: بگڑ جانا متعیر ہونا۔
سَنَانَةٌ: الرَّجُلُ: سال وار معاملہ کرنا۔
سَنَانَتِ النَّخْلَةُ: ایک سال کے ناعہ سے

سَنَانَةٌ: بہت برسوں والا ہونا..... السَّنِي: بدبودار ہونا..... عِنْدَةً: ایک سال تک اقامت کرنا۔
السَّنَهَاءُ: من النَّخْلِ: ایک سال کے ناعہ سے پھل دینے والا درخت خرما۔ خشک سالی والا۔ کہا جاتا ہے "سَنَةٌ سَنَهَاءٌ" بغیر بارش و بغیر پیداوار کا سال۔
سَنَانَسُو سَنَوًا و سَنَاوَةً و سَنَوًا و سَنَانِيَةً: السَّحَابُ الْأَرْضُ: بادل کا زمین کو سیراب کرنا..... السَّرْفِيُّ: بجلی کو دینا..... السَّنَابُ: دروازہ کھولنا۔ سَنَبَتِ النَّارُ: روشنی بلند ہونا..... السَّمَاءُ: برسا۔ سَنَاعَ عَلِي الذَّائِبَةِ: جانور پر پانی لانا..... الدَّلْوُ: ڈول کو کونئیں سے چھیننا۔
سَنَانِي سَنَاءً و مَسَانَةً: الرَّجُلُ: ایک سال کے لئے معاہدہ کرنا یا اجرت پر رکھنا۔
تَسْنِي سَنِيًا: السَّنِي: چڑھنا۔ "تَسْنَتِ الْعُقْدَةُ" گرہ کھلنا۔
السَّنَةُ: سال۔ رج مُنُونٌ و مِسْنُونٌ و سَنَوَاتٌ و سَنَهَاتٌ: تغیر سنیہ و سنیہ و سنیہ: نسبت کے لئے سنیوی سنیہی۔
السَّنَاءُ: بجلی کی چمک۔ ایک دست آورد کا نام۔
السنة الضوئية: (فلکیات) وہ مسافت جس میں روشنی ایک سال بھر میں طے کرتی ہے۔ یعنی ۹۳۶۸ ارب کلومیٹر سے قریب ستاری طرف چار سوئی سالوں سے زیادہ دور ہے۔
السَّنَانِي: قا۔ پانی لانے والا۔ رج سَنَانَةٌ: السَّنَانِيَّةُ: رہت۔ اونٹنی جس پر کونئیں سے پانی لایا جائے۔ رج سَنَوَانٌ.
السَّنَةُ الانْقِلَابِيَّةُ أَوْ السَّنَةُ الاِسْتَوَابِيَّةُ: وہ وقت جو کہ سورج کے گزرنے کے لئے ہوتا ہے اعتدال ربیع کے نقطہ پر دو دفعہ مسلسل۔ جس کی قیمت (مقدار) ۳۶۲۲ ۳۶۵ شمسی

سَنَانِي سَنَاءً و مَسَانَةً: الرَّجُلُ: ایک سال کے لئے معاہدہ کرنا یا اجرت پر رکھنا۔
تَسْنِي سَنِيًا: السَّنِي: چڑھنا۔ "تَسْنَتِ الْعُقْدَةُ" گرہ کھلنا۔
السَّنَةُ: سال۔ رج مُنُونٌ و مِسْنُونٌ و سَنَوَاتٌ و سَنَهَاتٌ: تغیر سنیہ و سنیہ و سنیہ: نسبت کے لئے سنیوی سنیہی۔
السَّنَاءُ: بجلی کی چمک۔ ایک دست آورد کا نام۔
السنة الضوئية: (فلکیات) وہ مسافت جس میں روشنی ایک سال بھر میں طے کرتی ہے۔ یعنی ۹۳۶۸ ارب کلومیٹر سے قریب ستاری طرف چار سوئی سالوں سے زیادہ دور ہے۔
السَّنَانِي: قا۔ پانی لانے والا۔ رج سَنَانَةٌ: السَّنَانِيَّةُ: رہت۔ اونٹنی جس پر کونئیں سے پانی لایا جائے۔ رج سَنَوَانٌ.
السَّنَةُ الانْقِلَابِيَّةُ أَوْ السَّنَةُ الاِسْتَوَابِيَّةُ: وہ وقت جو کہ سورج کے گزرنے کے لئے ہوتا ہے اعتدال ربیع کے نقطہ پر دو دفعہ مسلسل۔ جس کی قیمت (مقدار) ۳۶۲۲ ۳۶۵ شمسی

سَنَانِي سَنَاءً و مَسَانَةً: الرَّجُلُ: ایک سال کے لئے معاہدہ کرنا یا اجرت پر رکھنا۔
تَسْنِي سَنِيًا: السَّنِي: چڑھنا۔ "تَسْنَتِ الْعُقْدَةُ" گرہ کھلنا۔
السَّنَةُ: سال۔ رج مُنُونٌ و مِسْنُونٌ و سَنَوَاتٌ و سَنَهَاتٌ: تغیر سنیہ و سنیہ و سنیہ: نسبت کے لئے سنیوی سنیہی۔
السَّنَاءُ: بجلی کی چمک۔ ایک دست آورد کا نام۔
السنة الضوئية: (فلکیات) وہ مسافت جس میں روشنی ایک سال بھر میں طے کرتی ہے۔ یعنی ۹۳۶۸ ارب کلومیٹر سے قریب ستاری طرف چار سوئی سالوں سے زیادہ دور ہے۔
السَّنَانِي: قا۔ پانی لانے والا۔ رج سَنَانَةٌ: السَّنَانِيَّةُ: رہت۔ اونٹنی جس پر کونئیں سے پانی لایا جائے۔ رج سَنَوَانٌ.
السَّنَةُ الانْقِلَابِيَّةُ أَوْ السَّنَةُ الاِسْتَوَابِيَّةُ: وہ وقت جو کہ سورج کے گزرنے کے لئے ہوتا ہے اعتدال ربیع کے نقطہ پر دو دفعہ مسلسل۔ جس کی قیمت (مقدار) ۳۶۲۲ ۳۶۵ شمسی

سَنَانِي سَنَاءً و مَسَانَةً: الرَّجُلُ: ایک سال کے لئے معاہدہ کرنا یا اجرت پر رکھنا۔
تَسْنِي سَنِيًا: السَّنِي: چڑھنا۔ "تَسْنَتِ الْعُقْدَةُ" گرہ کھلنا۔
السَّنَةُ: سال۔ رج مُنُونٌ و مِسْنُونٌ و سَنَوَاتٌ و سَنَهَاتٌ: تغیر سنیہ و سنیہ و سنیہ: نسبت کے لئے سنیوی سنیہی۔
السَّنَاءُ: بجلی کی چمک۔ ایک دست آورد کا نام۔
السنة الضوئية: (فلکیات) وہ مسافت جس میں روشنی ایک سال بھر میں طے کرتی ہے۔ یعنی ۹۳۶۸ ارب کلومیٹر سے قریب ستاری طرف چار سوئی سالوں سے زیادہ دور ہے۔
السَّنَانِي: قا۔ پانی لانے والا۔ رج سَنَانَةٌ: السَّنَانِيَّةُ: رہت۔ اونٹنی جس پر کونئیں سے پانی لایا جائے۔ رج سَنَوَانٌ.
السَّنَةُ الانْقِلَابِيَّةُ أَوْ السَّنَةُ الاِسْتَوَابِيَّةُ: وہ وقت جو کہ سورج کے گزرنے کے لئے ہوتا ہے اعتدال ربیع کے نقطہ پر دو دفعہ مسلسل۔ جس کی قیمت (مقدار) ۳۶۲۲ ۳۶۵ شمسی

سَنَانِي سَنَاءً و مَسَانَةً: الرَّجُلُ: ایک سال کے لئے معاہدہ کرنا یا اجرت پر رکھنا۔
تَسْنِي سَنِيًا: السَّنِي: چڑھنا۔ "تَسْنَتِ الْعُقْدَةُ" گرہ کھلنا۔
السَّنَةُ: سال۔ رج مُنُونٌ و مِسْنُونٌ و سَنَوَاتٌ و سَنَهَاتٌ: تغیر سنیہ و سنیہ و سنیہ: نسبت کے لئے سنیوی سنیہی۔
السَّنَاءُ: بجلی کی چمک۔ ایک دست آورد کا نام۔
السنة الضوئية: (فلکیات) وہ مسافت جس میں روشنی ایک سال بھر میں طے کرتی ہے۔ یعنی ۹۳۶۸ ارب کلومیٹر سے قریب ستاری طرف چار سوئی سالوں سے زیادہ دور ہے۔
السَّنَانِي: قا۔ پانی لانے والا۔ رج سَنَانَةٌ: السَّنَانِيَّةُ: رہت۔ اونٹنی جس پر کونئیں سے پانی لایا جائے۔ رج سَنَوَانٌ.
السَّنَةُ الانْقِلَابِيَّةُ أَوْ السَّنَةُ الاِسْتَوَابِيَّةُ: وہ وقت جو کہ سورج کے گزرنے کے لئے ہوتا ہے اعتدال ربیع کے نقطہ پر دو دفعہ مسلسل۔ جس کی قیمت (مقدار) ۳۶۲۲ ۳۶۵ شمسی

سَنَانِي سَنَاءً و مَسَانَةً: الرَّجُلُ: ایک سال کے لئے معاہدہ کرنا یا اجرت پر رکھنا۔
تَسْنِي سَنِيًا: السَّنِي: چڑھنا۔ "تَسْنَتِ الْعُقْدَةُ" گرہ کھلنا۔
السَّنَةُ: سال۔ رج مُنُونٌ و مِسْنُونٌ و سَنَوَاتٌ و سَنَهَاتٌ: تغیر سنیہ و سنیہ و سنیہ: نسبت کے لئے سنیوی سنیہی۔
السَّنَاءُ: بجلی کی چمک۔ ایک دست آورد کا نام۔
السنة الضوئية: (فلکیات) وہ مسافت جس میں روشنی ایک سال بھر میں طے کرتی ہے۔ یعنی ۹۳۶۸ ارب کلومیٹر سے قریب ستاری طرف چار سوئی سالوں سے زیادہ دور ہے۔
السَّنَانِي: قا۔ پانی لانے والا۔ رج سَنَانَةٌ: السَّنَانِيَّةُ: رہت۔ اونٹنی جس پر کونئیں سے پانی لایا جائے۔ رج سَنَوَانٌ.
السَّنَةُ الانْقِلَابِيَّةُ أَوْ السَّنَةُ الاِسْتَوَابِيَّةُ: وہ وقت جو کہ سورج کے گزرنے کے لئے ہوتا ہے اعتدال ربیع کے نقطہ پر دو دفعہ مسلسل۔ جس کی قیمت (مقدار) ۳۶۲۲ ۳۶۵ شمسی

سَنَانِي سَنَاءً و مَسَانَةً: الرَّجُلُ: ایک سال کے لئے معاہدہ کرنا یا اجرت پر رکھنا۔
تَسْنِي سَنِيًا: السَّنِي: چڑھنا۔ "تَسْنَتِ الْعُقْدَةُ" گرہ کھلنا۔
السَّنَةُ: سال۔ رج مُنُونٌ و مِسْنُونٌ و سَنَوَاتٌ و سَنَهَاتٌ: تغیر سنیہ و سنیہ و سنیہ: نسبت کے لئے سنیوی سنیہی۔
السَّنَاءُ: بجلی کی چمک۔ ایک دست آورد کا نام۔
السنة الضوئية: (فلکیات) وہ مسافت جس میں روشنی ایک سال بھر میں طے کرتی ہے۔ یعنی ۹۳۶۸ ارب کلومیٹر سے قریب ستاری طرف چار سوئی سالوں سے زیادہ دور ہے۔
السَّنَانِي: قا۔ پانی لانے والا۔ رج سَنَانَةٌ: السَّنَانِيَّةُ: رہت۔ اونٹنی جس پر کونئیں سے پانی لایا جائے۔ رج سَنَوَانٌ.
السَّنَةُ الانْقِلَابِيَّةُ أَوْ السَّنَةُ الاِسْتَوَابِيَّةُ: وہ وقت جو کہ سورج کے گزرنے کے لئے ہوتا ہے اعتدال ربیع کے نقطہ پر دو دفعہ مسلسل۔ جس کی قیمت (مقدار) ۳۶۲۲ ۳۶۵ شمسی

درمیانے دن۔

الْمَسْنُونُ وَالْمَسْنِيَّةُ: رہت سے میرا بک ہوئی چیز۔

السَّنَةُ السُّجُومِيَّةُ أَوْ السُّمْدِيَّةُ: زمین کا سورج کے ارد گرد گردش کرنے کا وقت جب کہ اس کو سورج کے مرکز سے کسی سیارے کے ساتھ جمع ہوتے ہوئے دودھ دیکھا جاتا ہے۔

الْمُسْنَاةُ: بند جو سیلاب کو روکے۔ ج مَسْنَوَاتٌ وَمُسْنِيَّاتٌ: کہا جاتا ہے "عَقْدُوْهُ اُمْسِيَّاتٌ لِجَنَسِ الْبِيَاهِ" انہوں نے پانی روکنے کے لئے بند باندھا۔

سِنِي: (س) سِنَاءٌ: بلند مرتبہ ہونا۔

سَانِي مُسَانِلَةٌ وَسِنَاءٌ الرَّجُلُ: خوشنود کرنا۔ مدارات کرنا۔ مطالبہ میں نرمی کرنا۔ کہا جاتا ہے "سَانِيَةٌ حَتَّى اسْتَحْرَجْتُ مَا عِنْدَهُ" میں نے اس کے ساتھ نرمی کر کے جو کچھ اس کے پاس تھا سب نکلوا لیا۔

أَسْنَى اسْنَاءً الرَّبِيُّ: بجلی کا چمکانا۔

النَّازُ: آگ روشن کرنا۔ لَهَ الْجَائِزَةُ:

بیش قیمت انعام دینا "جَاوَزْتَهُ فَأَسْنَى

جَسَوَارِي" میں اس کا پڑوسی تھا۔ اس نے پڑوسی کا حق ادا کر دیا۔ الْقَوْمُ: ایک سال کسی جگہ مقیم رہنا۔

تَسْنَى: الْأُمُورُ: تیار ہونا۔ الرَّجُلُ: آسانی

وزمی کرنا۔ الشَّيْءُ: متغیر ہونا۔ الْقَفْلُ:

تالا کھلنا۔ الرَّجُلُ: راضی کرنا۔

السَّنَى: بجلی۔ ریشم۔ ایک دست آورد واکا

نام۔

السَّنَاءُ: مصل۔ بمعنی سنی۔ بلندی۔ روشنی۔

السَّنَائِيَةُ: شریف و عالی مرتبہ مرد۔ کہا جاتا ہے

"رَجُلٌ سَنَائِيٌّ" (جمع کے وزن پر مفرد ہے)

السَّنِيَّةُ: عالی مرتبہ۔ مَوْنَسٌ سَنِيَّةٌ:

الْبَسَائِيَّةُ: تمام چیز۔ پوری کی پوری۔ کہا جاتا

ہے "أَخَذْتَهُ بِسَنَائِيَّتِهِ" میں نے اس کو سارا کا

سارا لے لیا۔

السَّنُونُو: ابا بیل۔ واحد سَنُونُوَّةٌ وَسَنُونِيَّةٌ:

سَهَبٌ: (ف) سَهَبًا. السَّيُّ: لیلنا۔

أَسْهَبَ. الْكَلَامَ وَفِي الْكَلَامِ: لمی گفتگو کرنا۔ صفت (مُسْهَبٌ وَمُسْهَبٌ) ثانی نادر ہے۔

.....الرَّجُلُ: بہت دینا۔ حریص ولا لچی ہونا۔ الْفَرَسُ: گھوڑے کا کشادہ قدم رکھنا۔ أَسْهَبُوا الذَّابَّةَ: جانور کو چرنے کے لئے چھوڑ دینا۔

أَسْهَبَ: مدہوش ہونا۔ عقل کھودینا یا زیادتی محبت یا مرض یا خوف کی وجہ سے رنگ بدل جانا۔ أَسْهَبَتِ الْبُشْرُ: زیادہ گہرائی کی وجہ سے پانی نہ ملنا۔ صفت (سَهْبَةٌ وَمُسْهَبَةٌ)

إِسْهَبَ: بہت دینا۔

السَّهْبُ: مصل۔ بیابان۔.....مِنَ الْخَيْلِ:

کشادہ قدم سے تیز دوڑنے والا گھوڑا۔

وقت۔ کہا جاتا ہے "قَطَى سَهْبٌ مِنَ اللَّيْلِ" رات کا کچھ حصہ گزر گیا۔

السَّهْبُ وَالسَّهْبُ: مِنَ الْأَرْضِ: وسیع و

ہموار میدان۔ کہا جاتا ہے "قَطَعُوا سَهْبًا أَوْ

سَهْبًا مِنَ الْأَرْضِ" انہوں نے زمین کے

ہموار میدان کو طے کیا۔

السَّهْبَلُ: دلاور۔

سَهَجَتِ (ف) سَهَجًا. الرَّيْحُ: ہوا کا

لگا تار تیز چلنا۔.....الرَّيْحُ الْأَرْضِ: ہوا کا

زمین کو صاف کر دینا۔.....الطَّبِيخُ: خوشبو گھستا

.....الْقَوْمُ لَيْلَتَهُمْ: تمام رات چلنا۔

السَّاهِجُ: ج۔ سَهَجٌ (وَالسَّهَجُ

وَالسَّهْوُجُ وَالسَّهْوُجُ) مِنَ الْأَرْبَابِ: تیز

ہوا میں۔

السَّهَجُ: تیز ہوا کی گزر گاہ۔ جہاں تیز ہوا

چلے۔

السَّهَجُ: بہر حق و باطل میں بولنے والا۔ فصیح

و بلیغ۔

سَهَجَرٌ سَهَجْرَةٌ: ڈرتے ہوئے دوڑنا۔

سَهْدٌ: (س) سَهْدًا وَتَسَهَّدَ: بیدار رہنا۔ کم

نیند والا ہونا۔

سَهْدَةٌ: بیدار رکھنا۔ کہا جاتا ہے "سَهْدَةٌ

الْهَمُّ" اس کو ہم نے بیدار رکھا۔

السُّهْدُ وَالسُّهَادُ: بے خوابی۔

السُّهْدُ: کم نیند والا۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ سُهُدٌ" کم سونے والا مرد "عَيْنٌ سُهُدٌ" کم سونے والی آنکھ۔

السُّهْدَةُ: بیداری اور کہا جاتا ہے مَا رَأَيْتُ مِنْهُ سُهُدَةً میں نے اس کے اندر خبر کی طرف رغبت نہیں دیکھی السُّهْدُودُ: بہت لمبا۔ کہا جاتا

ہے "غَلَامٌ سُهُودٌ" نازک اندام جوان لڑکا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ (السُّهْدُ مِنْكَ زَانِيًا) وہ تم سے زیادہ ہوشیار ہے۔

السُّهْدُ: مفتح۔ کم نیند والا۔

السُّهْدَرُ: بے پرد۔

سَهْرٌ: (س) سَهْرًا: ساری رات بیدار

رہنا۔ صفت (سَاهَرٌ وَسَهْرَانٌ) اور کہا جاتا

ہے "لَيْلَةٌ سَاهِرَةٌ" رات جگے والی رات۔

سَهْرُ الرَّبِيِّ: بجلی کا رات کو چمکانا۔

أَسَهَرُ: جاگتے رکھنا۔

سَاهَرَةٌ: اکٹھے جاگنا۔

السَّهَارُ: بیداری۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ سَهَارٌ

الْعَيْنُ" کم سونے والا مرد۔

السَّاهُورُ: بیداری۔ زیادتی۔ چاند کا ہالہ۔

چاند کہا جاتا ہے "دَخَلَ الْقَمَرُ فِي

السَّاهُورِ" یعنی چاند گہن میں آ گیا۔ سَاهُورٌ

عَيْنُ الْمَاءِ: چشمہ کا منبع۔ السَّاهُورُ: مبینے کے

باقی نودن۔

السَّهَارُ وَالسُّهْرَةُ: بہت بیدار رہنے والا۔

السَّاهِرَةُ: السَّاهِرُ: کامونٹ۔ زمین اور

بقول بعض سطح زمین۔ ہمیشہ جاری رہنے والا

چشمہ۔ چاند۔ خوفناک جنگل۔

الْأَسْهَرَانُ: آنکھ کی دو درگس ناک کی دو

رگیں۔

السَّهَارُ: بیداری پر قادر۔

سَهْفٌ: (س) سَهْفًا. الْقَيْلُ: مقتول کا

نزع کی حالت میں تڑپنا۔

سَهْفٌ: (س) سَهْفًا: بہت پیاسا ہونا۔

ہلاک ہونا۔

إِسْهَقَهُ: خفیف سمجھنا۔

..... وَجْهَهُ: تیوری چڑھا ہوا ہونا۔ سَهْمَةٌ:
قرع اندازی میں غالب ہونا۔
سُهْمٌ: لُوکی لپٹ لگنا۔
سَاهِمَةٌ: قرع اندازی کرنا۔
أَسْهَمَ: لَهُ فِي كَذَا: حصہ مقرر کرنا۔ يَتَسَهَّمُ
الْقَوْمُ: قرعڈالنا..... فِي الْكَلَامِ: لمبی گفتگو
کرنا۔ صفت (مُسَهَّمٌ مُسَهَّمٌ)
تَسَاهَمُوا وَاسْتَهَمُوا: الْقَوْمُ: باہم قرع اندازی
کرنا۔ تَسَاهَمُوا الشَّيْءَ: باہم تقسیم کرنا۔
السُّهْمُ: - ج سہام: قرع اندازی کا تیر۔
تیر۔ سُهْمُ الزَّامِي: ایک ستارہ۔ ج أَسْهَمُوا
وَسُهْمَةٌ وَسُهْمَانٌ: حصہ۔ کہا جاتا ہے
"أَصَابَهُ فِي الْقِسْمَةِ سُهْمَانٌ" تقسیم میں
اُس کو ہر حصہ ملا۔
السُّهْمَةُ: قرابت۔ تقسیم۔ حصہ۔
السُّهْمُ: آفتاب کی کرنیں۔ حرارت غالبہ۔
پیاس۔ عقلاء۔ حکماء۔
السَّاهِمَةُ: مِنَ النَّوْقِ: دہلی تیلی اونٹنی۔
السُّهَامُ: لُوکی گرمی۔ گرمی کی تیزی۔ ترمرے
یعنی کڑی کے جا لے کی طرح ایک چیز جو سخت
گرمی کے زمانہ میں فضا میں معلوم ہوتی ہے۔
اونٹوں کی ایک بیماری۔
السُّهَامُ: دبلے پن کے ساتھ رنگ متغیر ہونا۔
اونٹوں کی ایک بیماری۔
السُّهْمُ: شریک۔ حصہ دار۔
السُّهْمُ: لاغری کی وجہ سے رنگ بدلا ہوا
دوغلا گھوڑا۔
السُّهْمَةُ: مِنَ النَّيَابِ: دھاری دار کپڑا۔
السُّهْمُ وَالْمُسْهُومُ: مِنَ الْإِبِلِ: سُهَامُ:
بیماری والا اونٹ۔
السُّهُومُ: عَقَابُ:
سَهَا يَسْهُوا سَهْوًا وَسَهْوًا: فِي الْأَمْرِ
وَعَنِ الْأَمْرِ: غافل ہونا۔ بھولنا۔ دل کا
دوسری طرف متوجہ ہونا۔ صفت (سَاهٍ
وَسُهْوَانٌ)
..... إِلَيْهِ: بے تگاہ سے دیکھنا۔
سَهْوًا يَسْهَوُ سَهَاوَةً: الْفَرَسُ: گھوڑے کا

الْمَوْضِعُ: نرم کر دینا۔
رَاهِلَةٌ مَسَاهِلَةٌ: نرم برتاؤ کرنا۔
أَسْهَلَ: پہاڑ سے میدانی زمین کی طرف اترنا
..... هَذَا: پیت کوزم کرنا۔ دست لانا۔
الرَّجُلُ: لوگوں کے ساتھ نرمی برتنا۔ الْأَمْرُ:
نرم پانا۔
أَسْهَلَ: الرَّجُلُ: اسہال والا ہونا۔
تَسَهَّلَ: الْأَمْرُ: آسان ہونا۔ کہا جاتا ہے "فَمَا
تَسَهَّلَ لِي أَنْ أَفْعَلَهُ" میرے لئے اس کا کرنا
آسان نہیں ہوا۔
تَسَاهَلًا: ایک دوسرے سے نرمی کا برتاؤ
کرنا۔
تَسَاهَلَ الْأَمْرُ عَلَيْهِ: آسان ہونا۔
إِسْتَهَلَ: الْمَكَانَ: نرم سمجھ کر اقامت کرنا۔
إِسْتَهَلَهُ: آسان سمجھنا۔
السُّهْلُ: نرم زمین۔ ہموار زمین۔ ج
سُهُولٌ وَسُهُولَةٌ: اور نسبت کے لئے
(سُهْلِي) جیسے "تَعَبٌ سُهْلِيٌّ" نرم زمین میں
چرنے والا اونٹ اور تم کہتے ہو "أَرْضٌ
سُهْلٌ" سُهْلُ الْوَجْهِ" کم گوشت والا چہرہ۔
سُهْلُ الْخَلْقِ: نرم اخلاق والا اور کسی کو خوش
آمدید کہنے کے موقع پر کہا کرتے ہیں "أَهْلًا
وَسَهْلًا" یعنی تم اپنے ہی لوگوں میں آئے۔
اجنبیوں میں نہیں اور تم نے نرم زمین پر قدم
رکھا۔ سخت زمین پر نہیں۔
السُّهْلَةُ وَالسُّهْلُ: ریت جیسی مٹی جس کو پانی
بہا لاتا ہے۔ السُّهْلَةُ: اسہال۔
الْإِسْهَالُ: عِنْدَ الْأَطْيَاءِ: دست آنا۔
السُّهُولُ: دست آوردو۔
سُهَيْلٌ: ایک روشن ستارہ جو بلاعراب میں
گرمی کے آخر زمانہ میں طلوع ہوتا ہے۔
مشہور ہے کہ اس کے طلوع ہونے پر گہریلے
مرجاتے ہیں۔ سُنِّيُّ کہتا ہے۔
وَتَذَكُّرُ مَوْتِهِمْ وَأَنَا سُهَيْلٌ
طَلَعَتْ بِمَوْتِ أَوْلَادِ الزَّنَاءِ
سُهْمٌ (ف) وَسُهْمٌ (ك) سُهْوَةٌ
وَسُهْوَانٌ: لاغری کی وجہ سے رنگ متغیر ہونا

السَّاهِفُ: فا۔ ہلاک ہونے والا۔ جس پر
جان کنی کے وقت پیاس کا غلبہ ہو۔ سَاهِفٌ
الْوَجْهَ: متغیر چہرے والا۔
السُّهْفُ: مضم۔ مچھلی کے سفے۔
السُّهَافُ: پیاس کی بیماری جس میں سیرابی
نہیں ہوتی۔ طَعَامٌ (مُسَهْفَةٌ) بہت پانی
پلانے والا کھانا۔ زَجَلٌ مُسَهْفُوقٌ: بہت
پانی پینے والا جو سیراب نہ ہوتا ہو۔
السُّهْوَوقُ: بڑا جھوٹا۔ لمبی پنڈلیوں والا۔
درختوں کا شاداب تنا۔
السُّهْوَوقُ: کشادہ قدم والا۔
سَهَكْتُ: (ف) سَهَكًا: الرِّيحُ: ہوا کا تیز
چلنا..... الرِّيحُ التَّرَابُ عَنِ وَجْهِ الْأَرْضِ:
غبار اڑانا..... الشَّيْءُ: کسی چیز کو گھٹنا۔
سَهَكْتُ سَهْوًا: الذَّابَّةُ: جانور کا آہستہ
چال چلنا۔
سَهَكٌ: (س) سَهَكًا: بدبودار ہونا۔ صفت
(سَهَكٌ) کہا جاتا ہے "بیدی سَهَكٌ مِنَ
السَّمَكِ" میرا ہاتھ مچھلی کی وجہ سے بدبودار
ہے۔
السَّهَكُ وَالسُّهَكَةُ وَالسُّهْوَكَةُ: پیدینے یا
سڑے ہوئے گوشت یا مچھلی کی بدبو۔
السُّهَكُ: لوہے کا رنگ۔
رِيحٌ (سَاهِكَةٌ) بہت تیز ہوا۔ ج سَوَاهِكٌ
وَسَاهِكَاتٌ: (رِيحٌ سَهْوُوكٌ وَسَهَكٌ
وَسُهْوُوكٌ وَمَسَهَكَةٌ) بہت تیز ہوا۔
السُّهَيْكُ: غبار جس کو ہوا اُزادے۔
السَّهَاكُ وَالْمَسَهَكُ: ہوا کی تیزی کی
طرح بلاغت سے گفتگو کرنے والا۔
السُّهَكُ مِنَ الْخَيْلِ: تیز رفتار گھوڑا۔
السُّهَكُ وَالْمَسَهَكَةُ: تیز ہوا کی
گزرگاہ۔
سُهْلٌ: (ك) سُهْوَةٌ: الْمَكَانُ: نرم
ہونا۔
سُهْلٌ: (ك) سُهْوَةٌ وَسَهَالَةٌ: الْأَمْرُ:
آسان ہونا۔ صفت (سُهْلٌ وَسُهْلٌ)
سُهْلٌ: الْأَمْرُ لَهُ وَعَلَيْهِ: آسان کر دینا۔

آسانی سے تابع ہونا۔ صفت (سہو)	سَوَاةٌ تَسْوِةٌ وَتَسْوِئًا: خراب کرنا۔
سہی۔ الرَّجُلُ: سہو بنانا (دیکھئے نیچے لفظ سہو)	سَاخٌ يَسُوخُ سُوخًا وَتَسُوخٌ: فِي الطَّيْنِ: گارے میں دھنس جانا۔ سَاخُ التُّسِي فِئِي المَاءِ: تیشہ میں ہونا (سَاخَتْ) بِهِمُ الأَرْضِ: سُوخًا وَسُووُخًا وَسُوخَانًا: نکل لینا۔
سہی۔ الرَّجُلُ فِي المَعَاظِرَةِ: نرمی کرنا۔ خوش خلقی کا برتاؤ کرنا ہ: غافل کرنا۔	سَوَاءٌ عَلَيْهِ عَمَلُهُ: عیب لگانا سرزنش کرنا۔
استہزاء کرنا۔	أَسَاءَ إِسَاءَةً: الشُّي: خراب کرنا۔ بگاڑنا إِلَيْهِ: برا سلوک کرنا۔
سہا: فریبان میں گرم کر کے خشک کرنا۔	إِسَاءَةٌ: تمکین ہونا۔ کہا جاتا ہے "سَاءَةٌ هُ فَاسَاءَةٌ" اس نے اسے تمکین بنایا اور وہ تمکین ہوا۔
السَّهْوُ: بھس۔ سکون۔ نرمی۔ کہا جاتا ہے "أَفْعَلَهُ سَهْوًا وَهَوًا" یعنی اس کام کو بغیر کسی تقاضے کے آسانی و نرمی سے کرو۔ "مَاءٌ سَهْوٌ" تھرا ہوا صاف پانی "جَمَلٌ سَهْوٌ" نرم تا حد اراوت "أَمْرٌ سَهْوٌ" نرم کام۔ "رَيْحٌ سَهْوٌ" نرم ہوا۔ ج سہا۔	السُّوءُ: بھس۔ زَجَلٌ سُوءٌ: وَزَجَلٌ السُّوءُ: بدکار مرد۔ و السُّوءُ: فساد۔ آگ۔ ج أسوء۔
السَّهْيُ وَالسَّهْيَا: بناتِ تَشْمُ صغریٰ میں بہت ہی چھوٹا ستارہ اور اسی سے مثل ہے "أُرِيهَا السَّهْيُ وَتُرِي السَّهْمَ" جو سوال از آسمان و جواب از زرعی سماں کے موقع پر بولتے ہیں۔	السُّوءُ: بھس۔ زَجَلٌ سُوءٌ: وَزَجَلٌ السُّوءُ: بدکار مرد۔ و السُّوءُ: فساد۔ آگ۔ آکھ کی کمزوری۔
السَّهْوُ وَالسَّهْوَاءُ: رات کا ایک حصہ۔	السَّيِّئُ: قبیح۔ برا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ سَيِّئُ الظَّنِّ" وہ لوگوں سے بدگمان ہے۔
السَّهْوَةُ: السَّهْوُ: کاموث۔ سہا: کام اسم مرہ۔ ج سہا: کانس۔ مہتابی۔ طاقچہ روشن دان۔ صحن کے سامنے کا پردہ۔ پانی کے سامنے کا خیمہ جو اعراب قائم کیا کرتے تھے۔	السَّيِّئَةُ: السَّيِّئُ: کاموث۔ برائی۔ گناہ۔ ج سَيِّئَاتٍ.
پتھر کی چٹان۔ پاکلی۔ نرم کمان۔	السَّيِّئَةُ: فاحشہ۔ بُرَى عَادَتٍ: شرمگاہ۔ ج سَوَاءُ ات.
السَّهْيُ: فا۔ کہا جاتا ہے "بَعِيْرٌ سَاهٌ زَاهٌ" یعنی نرم رفتار اونٹ۔ ج جَمَالٌ سَوَاهٌ زَوَاهٌ الاَسْهَى: الوان: رنگ (اس کے لئے مفرد نہیں۔)	الانسواء: اسم تفضیل مَوْنُثٌ سُوَايُ: برا۔ السُّوَايُ: جہنم کی آگ۔
سہوگہ: پچھاڑنا۔ ہلاک کرنا۔	السُّوَاءَةُ: بُرَى عَادَتٍ: بد شکل عورت۔
تَسْهُوْكُ: پچھاڑا جانا۔ ہلاک ہونا۔ پشت پھیرنا۔ نرم چلنا۔	السَّمَاءَةُ: بِرَاقُولٍ يَفْضُلُ: ج مَسَاوِيْهُ السَّمَاوِيْ: برائیاں۔ عیوب۔ نقائص۔
سَاءٌ تَسُوُّهُ سَوَاءٌ. الشُّي: قبیح ہونا۔ بڑا ہونا۔ کہا جاتا ہے "سَاءٌ تُ سَيِّرُهُ" اس کی عادت بری ہے۔	السُّوِيَّةُ: دُور كَاسَفَرٍ: السُّوِيَّةُ: گیسوں کی شراب۔
سَاءٌ يَسُوُّهُ سَوَاءٌ وَسَوَاءٌ قَوْ سَوَايَةً وَسَوَايَةً وَمَسَاعٍ وَمَسَاعٍ قَوْ وَمَسَايَةً وَمَسَايَةً وَمَسَايَةً الأَمْرُ فَلَانًا: تمکین کرنا۔ کمروہ سلوک کرنا بِه ظَنًا: برا گمان کرنا۔	سَاخٌ يَسُوخُ سُوخًا وَسُوَاجًا وَسُوخَانًا: آہستہ آنا جانا۔
	سُوْجٌ وَسَيْجٌ: الكُورُومُ وَنَحْوُهُ او عَلَي الكُورُومِ: انگور وغیرہ میں باڑ لگانا۔
	السَّيَّاحُ: دُيُوَارٍ: انگور وغیرہ کی باڑ۔ ج سَيَّاحَاتٍ وَأَسُوْجَةٌ وَسُوْجٌ.
	السَّجَّاحُ: مَا كُنْهُكَ دَرَحْتُ: ج سَيِّجَانُ: واحد۔ (ساجحہ) کشادہ گول چادر۔ كِسَاءٌ (مَسُوْجٌ) گول کیا ہوا کپل۔ السَّاحَةُ: گوشہ۔ کنارہ۔ مکانوں کے درمیان کا چوک۔ ج سَاَحٌ وَسُوْحٌ
	السُّوْدُ: سیاہ پتھروں والا ہموار میدان۔ ج أسواد: ایک قطعہ کو (سودہ) کہتے ہیں۔ السُّوْدَةُ: بھجور کے درختوں والی زمین۔ السُّوْدُ: بھس۔ سرداری۔ ایک قسم کی

.....الشَّاةُ: بکری کا بہت جوں والی ہونا۔
 سَوَسٌ: الطعام: گھن پڑنا..... لَهْ اَمْرًا: مزین
 کرنا۔ کہا جاتا ہے "سَوَسٌ فَلَانٌ اَمْرٌ
 الْقَوْمِ" فلاں قوم کے امور کا مالک بنایا گیا۔
 اَسَاسٌ: الطعام: گھن پڑنا۔ اَسَاسَةُ النَّاسِ:
 رئیس و سردار بنالینا۔ اَسَاسَتِ الشَّاةُ: بہت
 جوں والی ہونا۔ صفت (مُئَسِّس)
 النَّاسِ: بنتنظم۔ دانت کی جڑ جس کو کیزوں
 نے کھالیا ہو (اس کی اصل سانس ہے مثل
 ہار و ہاتر و صاف صانف: کے۔)
 السُّوسُ: اون یا نکوی کا کیزا۔ گھن۔ واحد
 (سُوْسَةٌ) کسی چیز کا کھانے والا۔ السُّوسُ:
 اصل طبیعت۔ تم کہتے ہو "الْفَضَاةُ مِنْ
 سُوْسِيَه" فصاحت اس کی طبعی چیز ہے۔ یعنی
 کا درخت۔
 السُّوسُ: ایک بیماری جو جانوروں کی سرین
 پر ہوتی ہے۔
 السُّوَسُ: گھوڑوں کے گردن کی ایک بیماری
 جو گردن کو خشک کر دیتی ہے۔
 البِيَسَاةُ: حص۔ پائیکس۔ ملکی تدبیر و
 انتظام۔ البِيَسَاةُ الْمَدِيْنَةُ: شہری انتظام۔
 عدل و استقامت کے ساتھ اس طرح پر
 انتظام کرنا کہ سب کی معاشی حالت اچھی
 ہو۔
 السُّوسِنُ وَالسُّوسِنُ وَالسُّوسَانُ: ایک
 خوشبودار بوٹی۔ جنگلی دبستانی دو قسم کی ہوتی
 ہے۔ واحد (سُوْسَنَةٌ) سَوَاسِنُ
 السُّوسِيُو لُوْجِيَا: بیت اجتماعیہ کے حالات
 کا علم۔
 سَاطِةٌ يَسُوْطُهُ سُوْطًا: کوڑے مارنا.....
 الشُّيْ: مخلوط کرنا..... الْحَرْبُ: لڑائی برپا
 کرنا..... الْاَمْرُ: تدبیر یا لڑائی.....
 سُوْطًا) نَفْسُهُ: جی کا متلانا۔
 سَوُوْطٌ: الْحَوَاثُ: گندنا کی شاخیں نکلنا.....
 الْاَمْرُ: مخلوط کرنا۔ گند کرنا..... الْحَرْبُ:
 لڑائی برپا کرنا۔
 اِسْتَوَطَ: الْاَمْرُ: مخلوط ہونا۔ گند کرنا ہونا۔

السُّوْطُ: کوڑا۔ چابک۔ رَجْ اَسُوْطًا
 وبيساط السُّوْطُ: حصہ۔ تختی۔ پانی جمع ہونے
 کی جگہ اور کہا جاتا ہے "هَمَّا يَعْطَاطِيَانِ
 سُوْطًا وَاِحْدًا" وہ دونوں ایک طرز پر کام
 کرتے ہیں۔ السُّيَاطُ: گندنا کی شاخیں۔
 السُّوْطُ: سپاہی جس کے پاس کوڑا ہو۔
 السُّوَيْطُ: گند کرنا۔ ملا ہوا۔
 السُّوْطُ: بغیر چابک کے نہ چلنے والا
 گھوڑا۔ (.....) وَالْمَسُوْطُ: کڑی وغیرہ کی
 کوئی چیز جس سے کسی چیز کو کسی چیز میں مخلوط
 کیا جائے۔
 السُّمِّيَاطُ: پانی جو حوض کے تہ میں باقی رہ
 جائے۔
 سُوْطُوْرٌ: دیکھئے۔ سُنْطُوْرٌ.
 سَاعٌ يَسُوْعُ سُوْعًا: ضائع ہونا۔
 سَاعَتِ الْاِبْلِ: بغیر چرواہے کے آزادی
 سے چرنا۔
 سَاوَعَةٌ مَسَاوَعَةٌ وَسَاوَعًا: گھنڈ بھر کے لئے
 معاملہ کرنا..... الرَّجْلُ: ایک وقت سے
 دوسرے وقت کی طرف منتقل ہونا۔
 اَسَاعٌ اِسَاعَةٌ: الشُّيْ: بیکار چھوڑنا۔ ضائع
 کرنا۔
 اَسُوْعٌ اِسُوَاعًا: ایک گھنڈہ موخر ہونا۔ ایک
 وقت سے دوسرے وقت کی طرف منتقل
 ہونا۔
 السُّوْعُ وَالسُّوَاعُ: رات کا ایک حصہ۔
 السَّاعِ: ہلاک ہونے والا۔ رَجْ سَاعَةٌ.
 السَّاعَةُ: گھنڈہ۔ وقت موجود۔ ابھی۔ کہا جاتا
 ہے "اِقْضِيْ حَقِّي السَّاعَةَ" میرے حق کو
 ابھی ادا کرو۔ گھڑی (مولدہ) رَجْ سَاعَاتِ
 وَسَاعِ السَّاعَةِ الرَّمْلِيَّةُ: ریت گھڑی۔
 السَّاعَةُ الشَّمْسِيَّةُ: صحیح گھڑی۔
 سَاعَةٌ سُوْعَاءُ: سخت وقت۔
 السُّوَيْعَةُ: ساعت کی تصغیر یعنی تھوڑا وقت۔
 رَجْلٌ (مَسِيْعٌ وَمَسِيْعٌ) لِلنَّمَالِ: مال کا
 بہت ضائع کرنے والا۔ تابع کے طور پر کہا
 جاتا ہے "هُوَ مَضِيْعٌ مَسِيْعٌ وَمَضِيْعٌ

مَسِيْعٌ".
 السُّوَاعُ وَالسُّوَعَاءُ: مذکی یا ودی۔ حدیث
 میں ہے فی السُّوَعَاءِ الْوَضُوْعُ. السُّوَاعُ:
 ایک بت کا نام جس کی پرستش نوح علیہ
 السلام کے زمانہ میں ہوتی تھی اور بعد میں
 قبیلہ ہذیل اس کی پرستش کرتا تھا۔
 الْمَسُوْعُ: جائز۔
 سَاعٌ (ن) سُوْعًا وَسُوَاعًا وَسُوْعَانًا.
 الْاَمْرُ: جائز ہونا۔ صفت (سَاعِغ)
 الشَّرَابُ: خوشگوار ہونا۔ صفت (سَاعِغِ وَسِيْعِ
 وَأَسُوْعِ) کہا جاتا ہے "سَاعٌ لِي الشَّرَابِ
 سَاعَتْ بِهِ الْاَرْضُ" دھنسا جانا۔
 سَاعٌ يَسُوْعُ سُوْعًا وَسَاعٌ يَسِيْعُ سِيْعًا.
 الشَّرَابُ: خوشگوار کرنا۔ جید لغت (أَسَاعَةٌ)
 ہے۔
 سُوْعٌ الْاَمْرُ: جائز کرنا..... لَهْ كَهَذَا: دینا۔
 کسی کے لئے خاص کر دینا۔
 أَسَاعٌ الطَّعَامِ أَوْ الشَّرَابِ: خوشگوار بنانا اور
 کہا جاتا ہے "أَسِغْ لِي غَضِيِي" یعنی مجھے
 مہلت دے۔
 اَسُوْعٌ اِسُوَاعًا: الصَّبِيْ اَخَاهُ: ساتھ پیدا
 ہونا یا ایک کے بعد دوسرا پیدا ہونا۔ صفت
 مذکر و مؤنث (سُوْعٌ وَسُوْعَةٌ وَسِيْعٌ) کہا جاتا
 ہے "هَذَا سُوْعٌ هَذَا وَهُوَ اَخُوهُ سُوْعُهُ
 وَهِيَ اُخْتُهُ سُوْعُهُ وَهُوَ اَخُوهُ سِيْعُهُ وَهِيَ
 اُخْتُهُ وَسِيْعُهُ" یہ سب ان موقعوں پر بولتے
 ہیں جبکہ دونوں بچے ساتھ پیدا ہوئے ہوں یا
 یکے بعد دیگرے اور ان کے درمیان کوئی
 تیسرا نہ ہو۔
 اِسْتَسَاعُ: الشَّرَابُ: خوشگوار پانا۔
 الْمَسِيْعُ: مِنَ الشَّرَابِ: خوشگوار شراب۔
 الْمِيْوَاعُ: حلق کے پھندے کو دور کرنے والی
 چیز۔ کہا جاتا ہے "الْمَاءُ مِيْوَاعُ الْفِصْصِ"
 پانی پھندے کو دور کرنے والا ہے۔
 سَافٌ يَسُوْفُ وَيَسَافُ سَوْفًا: الْمَالُ:
 ہلاک ہونا۔ جانوروں میں بیماری واقع
 ہونا۔

سَافٌ يَسُوفٌ سَوْفًا. عَلَيْهِ مَهْرُكَرْنَا
وَاسْتَأْفَ اسْتِيفًا الشَّيْءُ سَوْفًا.

سَوْفَةٌ: نالنا۔ بار بار کہنا کہ مخترب کروں گا
..... ہ الامر: پورا اختیار دینا۔

سَاوَفَةٌ مُسَاوَفَةٌ: سَوَّغْتَا۔ راز کی بات کہنا۔
نالنا۔

أَسَافٌ إِسَافَةٌ: مال ہلاک ہونا۔ اولاد کا
مرنا۔ صفت (مُسِيفٌ) اور اولاد کو (مُسَافٌ)
کہتے ہیں۔ اَسَافَهُ اللهُ: ہلاک کرنا۔

سَوْفٌ: یعنی برفچہ۔ حرف استقبال ہے "س"
سے اور اس کا زمانہ طویل ہوتا ہے اور یہ فعل
سے جدا نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ
يَقْنُثُ السَّوْفَ" فلاں آرزوؤں میں
زندگی بسر کرتا ہے۔

السَّائِفَةُ: باریک ریت اور ریتلی اور سخت
زمین کے درمیان والی زمین۔

السَّوَّافُ وَالسَّوَّافُ: جانوروں کی بیماری و
ہلاکت۔ کہا جاتا ہے "وَقَعَ فِي السَّمَالِ
سَوَّافٌ" مال میں ہلاکت واقع ہوئی اور اسی
سے مثل ہے "أَسَافٌ حَتَّى مَا يَشِيكُنِي
السَّوَّافُ" اس شخص کے حق میں بولا کرتے
ہیں جو تختیوں کے برداشت کرنے کا عادی ہو
جائے۔

السَّافُ وَالسَّافَةُ: مٹی یا چکی اینٹوں کا روہ۔
جِ اسْفٌ وَسَافَاتٌ: کہا جاتا ہے "بَسْنَى
سَافِينَ أَوْ فَلَاتٍ سَافَاتٍ" اس نے دو یا تین
روہے رکھے۔ السَّافُ: ایک شکاری پرندہ۔
السَّافَةُ وَالسَّوْفَةُ: ریتلی اور سخت زمین کے
درمیان کی زمین۔ جِ سَوْفٌ وَسَوْفٌ.

السَّمَّافَةُ وَالْمَسَافُ: جِ مَسَاوِفٌ
(وَالسَّمِيفَةُ) دوری۔ قاصد۔ تم کہتے ہو "كَمْ
مَسَافٌ هَذِهِ الْأَرْضُ وَمَسَافَتُهَا
وَبَسِيفَتُهَا" اس زمین کا کتنا فاصلہ ہے۔
و"بَسْنَهُمْ مَسَاوِفٌ مَرَاجِلُ" ان کے
درمیان بہت بُرد ہے۔ الْمَسَافُ: ناک۔

المَسِيفُ: وہ عورت جس کا بچہ مر گیا ہو۔
المُسْتَأْفُ: قطع مسافت کرنے والا۔ سَوَّغْتَا

کی جگہ۔

السُّوْفِيَاتُ: روسی قائدین نے انقلاب
روس کے بعد اس لفظ کو کارکنوں زمینداروں
اور فوجی قائدین کی جماعت پر بولا ہے۔ بعد
میں مملکت روس پر اس کا استعمال ہونے لگا۔
اسی سے ہے سَوْفِ اِزْم۔

المُسَوَّفُ: قا۔ صابر۔ خود مختار۔
المِسْوَفُ: عطر دان۔

سَاقٌ يَسُوقُ سَوْفًا وَسَيْفًا وَسَيْفًا
وَمَسَاقًا إِسْتِاقًا وَإِسْتِاقًا. الْمَاشِيَةُ: جانور
کو پیچھے سے ہانکنا۔ صفت (سَاقِيٌّ) جِ سَاقَةٌ
وَسَوَاقٌ وَسَاقُونَ: صفت مفعول (مَسُوقَةٌ)
اور کہا جاتا ہے "سَاقَهُ مَسَاقَ غَيْرِهِ" اس
نے اس کے ساتھ غیر کا سامنا کیا۔ سَاقِيٌّ
الْحَدِيثُ: بیان کرنا۔

سَاقَهُ يَسُوقُهُ سَوْفًا وَسَيْفًا: پنڈلی پر مارنا۔
سَاقِ إِلَيْهِ الْمَالُ: بھیجنا۔ پیش کرنا مِنْ
إِمْرَاتِهِ: مہر دینا السَّرِيضُ نَفْسَهُ عِنْدَ
السَّوْتِ وَسَيْقٌ عَلَى الْمُخْهُوْلِ: جاگتی
ہوتی۔

سَوْقٌ يَسُوقُ، سَوْفًا: اچھی اور ہڈ گوشت
پنڈلی والا ہونا۔

سَوْقٌ، السَّبْتُ: بندہ ہونا ہ الامر:
ما لک بنانا الْمَاشِيَةُ: جانور کو پیچھے سے
ہانکنا۔

سَاوَفَةٌ: ہانکنے میں نخر کرنا۔

أَسَافَةٌ إِسَافَةٌ وَأَمْسَافَةٌ إِسْمَافَةٌ
الْمَاشِيَةُ: ہانکنے کے لئے دینا۔

تَسَوْقٌ: خرید و فروخت کرنا۔

تَسَاوَفَتِ، الْمَاشِيَةُ: قطار میں چلنا۔ چلنے
میں بھیڑ کرنا۔

إِنْسَاقٌ: ہانکا جانا الْإِبِلُ: قطار میں چلنا۔
السَّاقِ: پنڈلی (مَوْنُثٌ) جِ سَوْقٌ وَسَيْقَانٌ
وَأَسْوُقٌ. سَاقِ الشَّجَرَةِ: درخت کا تنہ۔

سَاقِ الْحَمَامِ وَسَاقِ الْغُرَابِ: دونبات
کے نام۔ سَاقِ حُرٍ: زقمری۔ کہا جاتا ہے
"كَشَفَ الْأَمْرَ عَنْ سَاقِهِ" یعنی معاملہ سخت

ہو گیا۔ وَقَامَتِ الْحَرْبُ عَلَى سَاقٍ: یعنی
جنگ سخت ہو گئی۔ وَوَلَدَتِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ
بَنِينَ عَلَى سَاقٍ وَاحِدَةٍ: عورت کے تین
بیٹے لگا تار پیدا ہوئے ان کے درمیان میں
کوئی لڑکی نہیں۔

السَّاقَةُ: جلو۔ لشکر کا پھیلا دستہ۔ کہا جاتا ہے
"فَلَانٌ فِي سَاقَةِ الْجَيْشِ" فلاں لشکر کے
پچھلے دستہ میں ہے۔

السُّوقُ: بازار۔ (مَوْنُثٌ اور کبھی مذکر بھی
استعمال کیا جاتا ہے) جِ أَسْوَاقٌ. سُوقٌ
الْحَرْبِ: میدان جنگ۔

السَّوْقُ: پنڈلی کی لمبائی۔

السُّوْقَةُ: رعیت۔ عوام۔ معمولی لوگ (واحد
جمع مذکر مَوْنُثٌ)

السِّيْقُ: مِنَ السَّحَابِ: بادل جس کو ہوا اُڑا
دے۔

السَّبِقَةُ: جانور جن کو دشمن ہانک کر لے
جائے۔ کہا جاتا ہے "السَّبِقَةُ السَّبِقَةُ"
مرد تابع قضاہ و قدر ہے۔ السَّبِقَةُ: شکاری کی
اوٹ۔ جِ سَيْاقِيٌّ. وَسَيْقَاتٌ.

السُّوَيْقِيُّ: ستو۔ جِ أَسْوِيقَةٌ: شراب۔

السَّيَاقُ: مہم۔ عورت کا مہر۔ سَيْيَاقُ
الْكَلَامِ: اسلوب کلام۔ کہا جاتا ہے "وَقَعَتْ
هَذِهِ الْعِزَازَةُ فِي سَيْيَاقِ الْكَلَامِ" یعنی یہ
عبارت وسط کلام میں داخل ہے۔

السَّوَّاقُ: ہانکنے والا۔ سَوَّيْفَةٌ: والا یا بنانے
والا۔

الْأَسْوَقُ: لمبی پنڈلیوں والا۔ مَوْنُثٌ سَوْفَاءُ
جِ سَوْقٌ.

السَّوَّاقُ: لمبی پنڈلیوں والا۔ تنے پر کھڑا
ہونے والا پودا۔

السَّمْسُوقُ: بگڑی جس سے جانوروں کو
ہانکیں۔ اوٹ جس کی اوٹ میں چھپ کر
شکار کو دھوکا دیں۔

السَّمْسُوقُ: تالچ۔ قریب۔ لمبی ڈھلوان والا
پھاڑ۔

سَاكٌ يَسُوكُ سَوْكًا وَسَوْكٌ: الشَّيْءُ:

رگڑنا۔ ملنا اور اسی سے ہے "ساک"
الْأَسْنَانُ بِالْعُودِ" اس نے دانتوں کو ککڑی
سے رگڑا۔

ساک سیواکا و تساوک: آہستہ چلنا۔
کمزوری کی وجہ سے لڑکھڑا کر چلنا۔

تسوک تسوکا و اسٹاک استیٹاکا:
مواک کرنا۔

السیواک: حص۔ رج مسوک
و (السیواک) رج مساوئیک: دانت
صاف کرنے کی ککڑی مسواک۔

سَالِ يَسَالُ سَوَالًا وَسَوَالًا سَأَلَ: کا ایک
لغت۔

سَوَلٌ يَسُوْلٌ سَوَالًا: ناف کے نیچے ڈھیلے
پہننے والا ہوتا۔ صفت أسوول: مؤنث
سَوَالَاءُ: رج سَوُولُ۔

سَوُولٌ لَهُ الشَّيْطَانُ: گمراہ کرنا۔ کسی کام
کرنے کے لئے روغن قاز ملنا۔ کہا جاتا ہے
"هَذَا مِنْ تَسْوِيلَاتِ الشَّيْطَانِ" یہ شیطان
کی گمراہیوں میں سے ہے۔ و "سَوُولٌ لَهُ
نَفْسُهُ كَهَذَا" اس کے نفس نے اس کو مزین کر
دیا۔

تَسْوُولٌ: البَطْنُ: ڈھیلا پڑنا۔

السُّوْلُ: السُّوْلُ: کا خَجْفُفُ۔

السُّوْلَةُ: بہت پوچھنے والا۔

السُّوَالَاءُ: أسوول: کا مؤنث۔ بڑا ڈول۔

السُّوَيْلُ: برابر۔ کہا جاتا ہے "أَنَا سُوَيْلُكَ
فِي هَذَا الْأَمْرِ" میں اس کام میں تمہارے
برابر ہوں۔

سَامٌ يَسُوْمٌ سَوَمًا وَسَوَامًا: السِّلْعَةُ:
فروخت کے لئے پیش کرنا اور قیمت بتلانا۔

..... الْمُشْتَرَى السِّلْعَةَ: بھاد کرنا۔ کہا جاتا
ہے "سَامٌ بِسِلْعَتِهِ كَهَذَا" اس نے

اپنے سامان کا اتنے اور اتنے کا بھاد کیا۔

سَامَتِ الْمَاشِيَةَ: جانور کا چراگاہ میں جانا۔

سَاهَهُ الْأَمْرُ: تکلیف دینا۔ سَاهَهُ خَسْفًا:
ذلیل کرنا..... الطَّيْرُ عَلَى الشَّيْءِ: پرندہ کا

منڈلانا۔

..... الرَّيْحُ: ہوا کا چلنا اور جلدی سے گزرتا۔
سَامَ السَّاقَةَ عَلَى الْخَوْضِ: اونٹنی کو حوض پر
لے جانا۔

سَوَمَةٌ: الْأَمْرُ: کرنے کی تکلیف دینا۔

..... هِ فِي مَا يَمْلِكُهُ: حاکم بنانا۔ پوری
قدرت دینا..... فَلَانَا: کسی کو اس کے منشاء پر

چھوڑ دینا کہ جو چاہے کرے۔ امثال عرب
میں سے ہے "عَبَدْتُ وَسَوَمْتُ" اس کیفیت کے

متعلق بولتے ہیں جس کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہو

..... الرَّجُلُ: گھوڑوں کو چرنے کے لئے
چھوڑنا..... عَلَيْهِمْ: لوٹ ڈال کر فساد پھیلانا

..... الْقَرَسُ: گھوڑے پر داغ لگانا۔

سَاوَمٌ سَوَامًا وَمَسَاوَمَةٌ: بِالسِّلْعَةِ: سامان
کا بھادنا و تاؤ کرنا۔

تَسَاوَمٌ: السِّلْعَةُ: فروخت کرنے میں
جھگڑنا..... فِي السِّلْعَةِ: سامان کا بھادنا و تاؤ

کرنا۔

أَسَامٌ أَسَامَةً: الْمَاشِيَةَ: جانور کو چراگاہ کی
طرف روانہ کرنا..... إِلَيْهِ بَصْرَهُ: نظر ڈالنا۔

إِسْتَامَ: فَلَانَا السِّلْعَةَ: قیمت دریافت کرنا

..... بَهَا: زیادہ قیمت پر فروخت کرنا۔

تَسْوَمٌ: علامت لگانا۔

السَّمَامُ: موت۔ زکل۔ واحد (سَمَامَةٌ) السَّمَاةُ

: موت۔ چاندی یا سونے کا ککڑا۔ کونٹوں کے

اوپر کا گڑھا۔ رج سِيمِمٌ۔

السِّيْمَةُ وَالسُّوْمَةُ وَالسِّيْمَا وَالسِّيْمَانِي:

علامت ہیئت۔ کہا جاتا ہے "فِيهِ سُوْمَةٌ

الصَّلَاحِ وَبِئْسَمَةٌ: اس کے اندر بھلائی کی
علامت ہے۔

السِّيْمِيَا وَالسِّيْمِيَاءُ: علامت۔ خوبصورتی۔

السَّائِمُ: نا۔ خود سری سے چلنے والا چراواہا۔

السَّائِمَةُ وَالسَّوَامُ: چرنے والا اونٹ۔
جانور رج سَوَاتِمٌ۔

السَّوَامُ: حص۔ ایک پرندہ۔

السَّمَامُ: جلدی گزرتا۔

السَّمَامَةُ: چوکھٹ کے نیچے والی ککڑی۔
السُّوَمُ: خوبصورت بناوٹ والا۔ علامت

لگایا ہوا۔ الرَّجُلُ الْمُسَوَّمَةُ: چرائے ہوئے
یا چھوڑے ہوئے گھوڑے۔

سَوَيْيٌ يَسُوِيٌ سَوِيٌّ: الرَّجُلُ: درست کام
والا ہوتا۔

سَوِيٌّ: الشَّيْءُ: درست کرنا۔ سیدھا کرنا۔ کہا
جاتا ہے "سَوَيْيْتُ الْمَعْوَجَ فَمَا اسْتَوِي"

میں نے ٹیزھے کو درست کیا وہ درست نہیں
ہوا۔ ہموار کرنا اور مطلقاً بنانے اور کرنے

کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے الْأَبْسَارُ يَسُوِي
الْأَبْسَرَ. (..... وَسَوَاوِيٌّ) بَيْنَهُمَا وَسَوَاهُ

وَسَوَاوَاهُ بِهِ: برابر کرنا۔ کہا جاتا ہے "سَوَيْيْتُ
عَلَيْهِ الْأَرْضَ: یعنی وہ ہلاک ہو گیا اور دفن

کر دیا گیا۔ وَسَوَاوِيٌّ الشَّيْءُ: برابر کرنا۔

سَوَاوِيٌّ الرَّجُلُ قَوْلُهُ: ہم مثل ہونا۔ قدر و

قیمت میں برابر ہونا۔ سلم و شجاعت میں ایک

جیسا ہونا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا لَا يَسَوَاوِي
بِذِهِمَا" یہ ایک درہم کے برابر نہیں۔

أَسَوِيٌّ اسْوَاءٌ: رسوا ہونا۔ ذلیل ہونا۔

درست امور والا ہونا..... الشَّيْءُ: ہموار کرنا

..... اسْوَاهُ: برابر کرنا۔

تَسَوِيٌّ: ہموار ہونا۔ کہا جاتا ہے "تَسَوَيْتُ بِهِ
الْأَرْضَ" یعنی وہ ہلاک ہو گیا اور دفن کر دیا

..... اسْوَاهُ: برابر کرنا۔

تَسَوَاوِيًّا: فِي كَذَا: ہم مثل ہونا۔ برابر ہونا۔

..... اسْتَوَيْيٌّ: الشَّيْءُ: معتدل و برابر ہونا۔ سیدھا

ہونا۔ کہا جاتا ہے "سَوَيْيْتُ الشَّيْءَ فَمَا
اسْتَوَيْيٌّ" میں نے چیز کو سیدھا کیا وہ سیدھی

نہیں ہوئی..... الرَّجُلُ: درست امور والا

ہونا۔ پوری جوانی کو پہنچنا..... عَلَيْهِ: غالب

ہونا..... عَلَى ظَهْرِ الذَّابِيَةِ: جم کے بیٹھنا۔

"اسْتَوَيْيٌّ عَلَى سَرِيرِ الْمَلِكِ" کنا یہ ہے

کامل قبضہ و تصرف سے..... إِلَى الشَّيْءِ: قصد

دارادہ کرنا۔ اسْتَوَيْيْتُ بِهِ الْأَرْضَ: ہلاک و

مدفون ہونا۔ اسْتَوَيْيْتُ الطَّعَامَ: پک کر تیار

ہونا۔

السَّوِيٌّ: ارادہ۔

السَّوَاءُ: برابر۔ درمیان۔ سچ۔ کہا جاتا ہے
 "ضَرْبٌ سَوَاءٌ" اس نے اس کے وسط میں
 مارا۔ "الْقَبِيضَةُ فِي سَوَاءِ النَّهَارِ" میں نے
 اس سے دوپہر میں ملاقات کی اور سواہ غیر
 کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے "جَاءَ وَاسْوَاءُ
 زَيْدٌ" زید کے علاوہ سب آئے اور مستوی
 کے معنی میں بھی جیسے "مَكَانٌ سَوَاءٌ وَتَوْتٌ
 سَوَاءٌ" یعنی لمبائی چوڑائی برابر والی جگہ یا
 کپڑا۔ "سَوَاءُ السَّبِيلِ" سیدھا راستہ۔
 وَهَذَا دِرْهَمٌ سَوَاءٌ: یہ پورا درہم ہے۔
 سَوَاءُ النَّجْلِ: پہاڑ کی چوٹی۔ السَّوَاءُ: مثل
 مانند "هُمَا فِي هَذَا الْأَمْرِ سَوَاءٌ" وہ دونوں
 اس معاملہ میں ایک جیسے ہیں اور اگر تم چاہو تو
 بجائے سَوَاءُ کے سَوَاءُ ان بھی کہہ سکتے ہیں
 اور جمع کی صورت میں هُمْ. سَوَاءُ يَاهُمْ
 اَسْوَاءُ اور خِلافِ قِيَاسٍ هُمْ سَوَاءِ
 وَسَوَائِيَّةٌ وَسَوَائِيَةٌ" بھی کہہ سکتے ہیں۔
 وَلَيْلَةُ السَّوَاءِ: تیرہویں یا چودھویں کی
 رات۔ اور کہا جاتا ہے "مَسْرُوتٌ بِرَجُلٍ
 سَوَاءٍ وَالْعَدَمُ" میرا گزرا یہ شخص پر ہوا جس
 کا وجود عدم برابر ہے اور جب سواہ کے
 بعد ہمزہ تسویہ ہو تو آم کا ہونا ضروری ہے۔
 چاہے دو اسم واقع ہوں یا فعل۔ جیسے "سَوَاءٌ
 عَلِيٌّ أَزِيدُ جَاءَ أُمَّ عَمْرُو" میرے لئے
 برابر ہے چاہے زید آئے یا عمرو۔ "سَوَاءٌ
 عَلِيٌّ أَقَمْتُ أُمَّ قَعْدَتٌ" میرے لئے برابر
 ہے چاہے تم کھڑے رہو یا بیٹھو اور سواہ کے
 بعد دو فعل بغیر ہمزہ تسویہ کے واقع ہوں تو
 ثانی کا عطف او کے ذریعے ہوگا جیسے "سَوَاءٌ
 عَلِيٌّ قَمْتُ أَوْ قَعَدْتُ" اور اگر دو مصدر
 واقع ہوں تو ثانی کا عطف او اور او دونوں
 سے جائز ہے جیسے "سَوَاءٌ عَلِيٌّ قِيَامُكَ أَوْ
 قُعُودُكَ وَقِيَامُكَ وَقُعُودُكَ".
 السَّوِيَّاءُ وَالسَّوِيُّ: برابر۔ وسط۔ غیر مانند
 سواہ کے اور یہ حروف استثناء میں سے ہیں
 جیسے "جَاءَ وَاسْوَيْ زَيْدٌ" اور تم کہتے ہو
 "عِنْدِي رَجُلٌ سَوَاكُ" تمہاری جگہ

میرے پاس دوسرا شخص ہے۔ "مَسْرُوتٌ
 بِرَجُلٍ سَوِيٍّ وَالْعَدَمُ" میرا گزرا یہ شخص پر
 ہوا جس کا وجود عدم برابر ہے اور کہا جاتا
 ہے "هُمَا عَلِيٌّ خَلِيْفَتَا سَوِيٍّ" یعنی ان کے
 درمیان تفاوت نہیں۔
 السَّوِيُّ: ہموار۔ درست۔ برابر۔ انصاف۔
 مَكَانٌ سَوِيٌّ: سچ کی جگہ۔ غلامٌ سَوِيٌّ بے
 عیب لڑکا۔ رَجٌ سَوِيٌّ: عیب لڑکا۔
 السَّوِيَّةُ: السَّوِيُّ: کامنٹ۔ برابر۔ کہا
 جاتا ہے "هُمَّ عَلِيٌّ سَوِيَّةٌ فِي هَذَا الْأَمْرِ"
 وہ سب اس معاملہ میں برابر ہیں۔
 "وَقَسَمْتُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ" میں نے ان
 دونوں کے درمیان برابر تقسیم کر دیا۔
 لُونْدِيُوں اور تھاجوں کی سواری۔ رَجٌ سَوَايَا.
 السَّيُّ: بیابان۔ برابر۔ مثل۔ کہا جاتا ہے
 "هُمَا سَيَّانٌ" وہ دونوں ایک جیسے ہیں۔
 مَكَانٌ سَيٌّ: ہموار جگہ اور مونٹ کے لئے کہا
 جاتا ہے "فَاهِي سَيٌّ لَكَ وَلِيْسَبِ
 الْمَرْأَةُ لَكَ سَيٌّ وَمَالِكٌ بِالسَّوَاءِ" یہ
 عورت یا یہ عورتیں تمہاری مثل نہیں اور
 "لَا سَيَّانًا" سی اور ما سے مرکب ہے اور کلمہ
 استثناء ہے اور مشہور یہ ہے کہ اس کا استعمال
 واو کے ساتھ ہوتا ہے اور لَا سَيَّانًا تَخْفِيفِ
 کے ساتھ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی لا
 مخدوف ہوتا ہے اور یہ ضعیف لغت ہے۔
 لَا سَيَّانًا: اس لفظ کے ذریعے اس کے بعد
 والے لفظ کو معنی میں ترجیح ہوتی ہے اس کے
 ماقبل اس کلمہ (لا سیمما) کے بعد والے لفظ
 کے اعراب میں دو توجیہ ہیں۔
 (۱) مرفوع اس بنیاد پر کہ وہ مبتدا مخدوف کی
 خبر ہے مثلاً يَعْبُدُنِي الرَّبِيعُ لَا سَيَّانًا
 ازہارہ۔
 لَا نَفْسِي جِنْسِ نَسِي: اسم ناموصولہ مجرد
 مضاف الیہ بنی مبتدا مخدوف ازہارہ: اس
 کی خبر۔
 مَبْتَدَأٌ خَبْرٌ لَمْ يَصِلْ مَوْصُولًا كَا۔
 لَا نَفْسِي جِنْسِ كِي خَبْرٌ مَخْدُوفٌ مَوْجُودَةٌ:

(۲) مجرد اس بنیاد پر کہ ما زائدہ سی مضاف
 اور ازہارہ: مضاف الیہ۔ اس صورت میں لا
 کا اسم: سی اور خبر موجودہ۔
 الْاَسْوِيُّ: اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے "هَذَا
 الْمَكَانُ اَسْوِيُّ هَذِهِ الْاَمْكِيَّةُ".
 الْاَسْوَاءُ: مضم۔ درستی۔ اعتدال (خط
 الاستواء) عِنْدَ الْجُغْرَافِيِّينَ: وہ دائرہ جو کرۂ
 زمین کے گرد قطبین سے برابر فاصلہ پر کھینچا
 ہوا فرض کیا گیا ہے اور جو زمین کو دو نصف
 حصوں شمالی و جنوبی میں تقسیم کرتا ہے۔ اس خط
 پر سال بھر دن رات برابر رہتے ہیں۔
 نَسِيَاتٌ وَنَسِيَاتٌ: النَّاَقَةُ: اونٹنی کا بغیر دوہنے
 کے دودھ بہانا۔ کہا جاتا ہے "نَسِيَاتٌ عَلِيٌّ
 الْاَمْسُورُ" میرے اوپر امور مختلف ہو گئے۔
 "وَتَسِيًّا فَلَانٌ بِحَقِيْقِي" فلاں نے میرے حق
 کا انکار کے بعد اقرار کر لیا۔
 اِنْسِيًّا: اللَّيْنُ: دودھ کا بغیر دوہنے کے بہنا۔
 السَّيُّ وَالسَّيُّ: دودھ جو چھن کے اطراف
 میں ہو اور بغیر دوہے ہوئے نکلے۔ رَجٌ
 سَوِيٌّ.
 سَابٌ يَسِيْبُ سَيًّا: پانی کا ہر طرف
 کو بہنا۔ الرَّجُلُ: تیز چلنا۔ فَعِي كَلَاهِبِهِ:
 بغیر غور و فکر کے بولنا۔ الدَّائِبَةُ: جانور کا
 آزادانہ چلنا۔
 سَيَّةٌ: مَجْهُوْرٌ دِيْنَا: العَبْدُ: غلام کو آزاد کر
 دینا۔
 اِنْسَابٌ اِنْسِيَابًا: تیز چلنا۔ اِنْسَابُ الْحَيَّةِ:
 سانپ کا تیزی کے ساتھ رینگنا۔
 فَلَانٌ نَحْوَانَا: لوٹنا۔
 السَّيْبُ: مضم۔ بارش۔ داود و ہش۔ مَالٌ
 زِيَادِيٌّ: گھوڑے کے دم کے بال۔ کشتی کا
 چپو۔ رَجٌ سَوِيْبٌ.
 السَّيْبُ: پانی بہنے کی جگہ۔ رَجٌ سَوِيْبٌ
 سَيْبُ: (فارسی)
 السَّيَابُ وَالسَّيَابُ وَالسَّيَابُ: کچی کھجور
 (بعضوں کے نزدیک بمعنی بلخ اور بعضوں
 کے نزدیک بمعنی بسیر ہیں) وَاحِدٌ سَيَابَةٌ

وَسَيَابَةٌ. السَّيَابَةُ: شَرَابٌ -

السَّيْبَانُ. صَيْبَانٌ: كَأَحْرَفٍ كَلِمَةٌ هِيَ - بِمَعْنَى

جَوَلِ كَيْفِ الْإِنْدِ -

السَّيَابَةُ: چھوڑی ہوئی۔ آزاد کیا ہوا۔ غلام۔

وہ اونٹنی جو زمانہ جاہلیت میں نذر و غیرہ کے

لئے چھوڑ دی جاتی تھی یا وہ اونٹنی جس کے دس

مادہ بچے ہوں تو اس پر نہ تو سوار ہوتے تھے

اور نہ اس کے دودھ کو سوائے (اس کے بچے

کے اور مہمان کے کوئی پیتا تھا اور گھاس پانی

وغیرہ سے بھی اس کو نہیں روکا جاتا تھا اور اس

کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہاں تک کہ مر جاتی

تھی۔ (نَسِيبٌ وَسَوَائِبٌ.

سَيْحٌ. الْكُرْمُ: انگوٹھ میں باز لگانا۔

السَّيَاحُ: دیوار۔ باڑ۔ نَسِيبًا جَاثًا

وَأَسْوَجًا وَسَوْجٌ.

السَّيْحَانُ: ایک قسم کی مچھلی۔

سَاخٌ يَسِيخُ سَيْخًا وَسَيْحَانًا. الْمَاءُ: پانی

کا کڑ زمین پر بہنا۔ صفت مَاءٌ سَائِخٌ

وَسَيْحٌ: کہا جاتا ہے "هَلْدِهِ الْأَرْضُ تُسْقَى

بِالْمَاءِ سَيْحًا" اس زمین کی سیرابی بہتے

ہوئے پانی سے ہے۔..... السَّيْحُ: پھرتا۔ ہٹ

جانا)..... سَيْحًا وَسَيْحَانًا وَسَيْحَاةٌ

وَسَيْوُوحًا): زمین میں عبادت کے لئے

پھرتا۔ شہروں میں پھرتا۔ صفت (سَائِحٌ) ح

سَيَّاحٌ وَسَائِيحُونَ.

سَيْحَةٌ وَأَسَاخَةٌ: بہانا۔ کہا جاتا ہے "نَسِخٌ

تَسِيحًا عَجِيْرًا" اس نے خوش بیانی سے

گفتگو کی۔ أَسَاخُ الْفَرَسِ بَدَنِيَهٌ: گھوڑے کا

ذم کو لگانا۔

إِنْسَاخٌ: بَطْنَةٌ: پیٹ کا بڑا ہونا۔ موٹا ہونا.....

الْفَوْبُ: کپڑے کا پھٹنا..... بِمَالَةٍ: کشادہ دل

ہونا۔ إِنْسَاخَاتُ الصَّخْرَةِ: چٹان کا پھٹ

جانا۔

السَّيْحُ: ہمیں۔ بچے والا پانی۔ دھاری دار

کابل۔ ح سَيُّوحٌ وَأَسْيَاحٌ.

السَّيَّاحُ: مسجد میں رہنے والا روزہ دار۔

السَّيَّاحُ: ملکوں میں بہت پھرنے والا۔

السَّيَّاحُ: ہرائی اور چٹلی کو پھیلانے والا۔

ح مَسَائِيحٌ.

المُسَيِّحُ. مِنَ الْغِيَابِ: دھاری دار کپڑا۔

سَاخٌ يَسِيخُ سَيْخًا وَسَيْحَانًا: مضبوط ہونا۔

سَاخَتْ قَدَمُهُ فِي الطِّينِ: گارے میں

پاؤں کا دھنس جانا۔

السَّيْنُخُ: بڑی چھری۔ (فارسی)

السَّيَّاحُ: مٹی کی عمارت۔ ح سَيُّوْخٌ.

سَيَّازٌ: (ض) سَيِّبَرًا وَتَسَيَّازًا

وَمَسَيِّرًا وَمَسَيِّرَةٌ وَسَيِّرَةٌ: جانا۔ چلنا۔

سَفَرٌ كَرْتَا..... ه وَبِهْ: چلانا..... الذَّابَّةُ: جانور

پر سوار ہونا..... السَّنْفَةُ: عمل کرنا۔ جیسے 'و'

أَوَّلُ رَاحِي سُنْفَةٍ مِّنْ نَّبِيْرَهَا" کسی سنت

پر پہلا راضی ہونے والا وہ شخص ہے جو اس

کے مطابق عمل کرے۔ کہا جاتا ہے

"مِيْرَعْنُكُ" یعنی غافل ہو جاؤ اور برداشت

کرو۔ اس کی تقدیر یہ ہے "بِسُوْرَدَعٍ

عَنْكَ الشُّكُّ وَالْمِرَاةُ" سَاوُ الْكَلَامِ

أَوِ الْمَثَلِ فِي النَّاسِ: مشہور ہونا۔

سَيَّرَ وَأَسَاوَرَ. الرَّجُلُ: چلانا..... الْجُلُّ عَنْ

ظَهْرِ الذَّابَّةِ: اتار دینا۔ سَيَّرَ السُّوْبُ

أَوِ السَّهْمُ: دھاری ڈالنا۔ سَيَّرَ الْمَثَلُ:

لوگوں میں مشہور کرنا۔ سَيَّرَ سَيْرَةَ: پہلے

لوگوں کی باتیں بیان کرنا۔ سَيَّرَهُ مِنْ بَلَدِهِ:

جلا وطن کرنا۔ نکال دینا۔

سَايَرَةٌ: ساتھ چلنا۔

تَسَيَّرَ. الْجَلْدُ: چمچل جانا۔

تَسَايَرًا: باہم مل کر چلنا۔ تَسَايَرٌ عَنْ وَجْهِهِ

الْقَضْبُ: زائل ہونا۔

إِسْتَاوَرَ اسْتِيَاوَرَ: تراہ خریدنا..... بِمَسِيْرَةٍ

فُلَانٌ: کسی کی سیرت و عادت پر چلنا۔

سَاوَرُ الشَّيْءِ: تمام چیز۔ ساڑ میں ایک لغت

ہے۔

السَّيْرُ: تسمہ۔ ح سَيُّوْرٌ وَسَيُّوْرَةٌ وَأَسْيَاوَرٌ.

السَّيْرَةُ: ساڑ کا اسم۔ عادت۔ طریقہ۔

طَرَزَ زَنْدُكِي. بَيْتٌ: مَسِيْرَةُ الرَّجُلِ: سوانح

عمری۔ لوگوں کے ساتھ سلوک کی کیفیت۔ کہا

جاتا ہے "هَسُوَ حَسَنُ السَّيْرَةِ" وہ اچھی

عادت والا ہے اور اسی سے عرب کا قول ہے

"مَنْ طَابَتْ سَيْرَتُهُ حَمِدَتْ سَيْرَتُهُ"

جس کا باطن اچھا ہوتا ہے اس کی عادت اچھی

ہوتی ہے۔ ح سَيْرٌ.

السَّيْرَاءُ: دھاری دار چادریں یا الہی

چادریں جن میں ریشم ملا ہوا ہو۔ خالص

سونا۔ ایک قسم کی نباتات۔ کھٹھلی سے چمٹا ہوا

چمچلا۔ دل کا پردہ۔ گھجور کی ٹہنی۔

السَّائِرُ: فَا. سَائِرُ الشَّيْءِ: چیز کا بقیہ۔ الْمَثَلُ

السَّائِرُ.

السَّيَّارُ وَالسَّيْرَةُ السَّيُّوْرُ: بہت چلنے والا۔

السَّيَّارَةُ. السَّيَّارُ: كَأَمَوْتٍ - قَائِدٌ.

آفتاب کے گرد گھومنے والا ستارہ۔ جیسے زحل

مشتري 'مرخ' زمین 'زہرہ' عطارد وغیرہ۔ ح

سَيَّارَاتُ. السَّيَّارَةُ: موٹر کار۔

السَّيَّارُ: مَص - سیر کا مبالغہ۔

السَّيُّوْرُ: مَفْع - قیاس کے لحاظ سے مَسِيْرٌ

ہے مگر مصدر سے التماس کی وجہ سے بدل دیا

گیا۔ طَرِيقٌ مَسُوْرٌ: آدروفت والا راستہ۔

السَّيْمِيْرَةُ: مَص - مسافت۔ کہا جاتا ہے

"بَيْنَهُمَا سَيْمِيْرَةٌ يَوْمٌ" ان دونوں کے

درمیان ایک دن کی مسافت ہے۔

السَّيْمِيْرُ. مِنَ الْغِيَابِ: دھاری دار کپڑا۔

السَّيْمِيْرُ: حَلٌّ كَالثَّلِّ -

مَتَسِّسٌ يَمْسِسُ سَيْسًا. الطَّعَامُ: گھن پڑنا۔

سَاسَاهُ: شَرْمٌ دَلَانًا - عار دلانا۔

السَّيْسُ: جَبَلِيٌّ كَالْپُودَةِ -

السَّيْسَاءُ: رِيْزُهُ كِ الْبُدِي كِ جُوْرُ كِ جَلْدُ -

بَيْسَاءُ الظَّهْرِ مِنَ الدَّوَابِّ: جانوروں کی

پیشے پر سوار ہونے کی جگہ۔

سَيْطَرَةٌ سَيْطَرَةٌ وَتَسَيْطَرُ: تمہبان ہونا۔

داروغہ ہونا۔

سَاعٌ يَسِيْعُ سَيْعًا وَسَيْوُوعًا. الشَّيْءُ: ضائع

ہونا)..... وَأِنْسَاعٌ وَتَسْيَعُ. الْمَاءُ: پانی کا

ادھر ادھر بہنا۔ إِنْسَاعُ الْحَامِدِ: جہی ہوئی

چیز کا پھلنا۔

تک پیشانی کی سفیدی۔ ج سوال۔
 السَّيْلُ: مصل۔ بننے والا۔ کہا جاتا ہے "مساءً
 سَيْلٌ" بننے والا پانی۔ السَّيْلُ: سیلاب۔ ج
 سَيْوُلُ۔
 السَّيْلَةُ: پانی بننے کی جگہ۔ سال کا اسم مرہ۔
 السَّيْلَةُ: پانی کا بہاؤ۔
 السَّيْلَانُ: ایک قیمتی پتھر۔ تلوار کا وہ حصہ جو
 میان میں داخل ہو۔ ج سَيْالَيْنِ۔
 السَّوَائِلُ: مِنَ الْمَعَادِنِ وَغَيْرِهَا: بننے والی
 چیزیں۔
 السَّيَالُ: سفید لہے کا نٹوں والا ایک پودہ کہ
 جب کاٹنے کو توڑتے ہیں تو دودھ کی مانند نکلتا
 ہے۔ واحد۔ سَيْالَةٌ۔
 السَّيَالُ: زور سے بننے والا۔ مؤنث سَيْالَةٌ
 السَّيَالُ: ایک قسم کی پھلی۔
 مَسَيْلُ: المَاءِ: پانی بننے کی جگہ۔ ج مَسَائِلُ
 وَفَسْلُ وَأَمْسِلَةٌ وَمَسْلَانُ۔
 الْمَسَالُ: مِنَ الْوُجُوهِ: ڈاڑھی نکلنے کی ایک جانب۔
 سَيْسَمًا تُو غَرَافٍ: وہ آلہ (پروجیکٹر) جو کہ
 بنائی گئی تصاویر (سلائیڈز) کو سکرین پر پیش
 کرنے کیلئے تیار کیا گیا ہو۔ وہ گھر جس میں
 مناظر سینما کی دکھائے جائیں۔
 أَسَيْسَمًا: سینیما کا جدید آلہ (3d) جو کہ
 اشخاص کی تصاویر وغیرہ ایسی عمدہ پیش کرتا
 ہے گویا کہ وہ اصلی اور حقیقی ہیں۔
 السَّيْمُونِيَّةُ: سیمون جادوگر کی طرف
 منسوب۔ مال کے ذریعہ روحانی مراتب
 کے درجہ پر پہنچنے کی کوشش۔
 سَيْبَةُ: الْقَوْسُ: کمان کا سرا۔ ج سَيْبَاتُ۔

چھلی ہوئی ہوتی ہے۔
 السَّيْفَانُ: مِنَ الرَّجَالِ: لمبا وپتلا مرد۔
 مَوْنُثٌ سَيْفَانَةٌ: اور بقول بعض عورتوں ہی
 کے لئے مخصوص ہے۔
 السَّيْفُ: شمشیر زن۔ ج سَيْفَانَةٌ: رَجُلٌ
 سَيْفٌ: خون گرانے والا مرد۔ سَيْفٌ
 الْأَمِيرُ: جلاؤ۔
 الْأَسْيَافُ: پارٹیاں۔
 الْمَسَافِي: خشک سالی۔ قحط۔ کہا جاتا ہے
 "أَصَابَتْهُمْ الْمَسَافِي" ان کو قحط سالی لاحق
 ہوئی۔
 الْمُسَيْفُ: تلوار سے مسلح۔ دلیر۔ فقیر۔
 الْمُسَيْفُ: مِنَ الْمَذَاهِمِ: درہم جس کے
 کنارے نقش سے خالی ہوں..... مِنَ الْيُودِ
 چادریں جن پر تلوار کا نقش ہو یا تلوار کی مانند
 چوڑی دھاریاں ہوں۔
 السَّيْكَاسُ: سمجھور کی مانند پتوں اور تنے کے
 لحاظ سے لیکن صنوبر کے زیادہ قریب درخت
 ہے۔ اکثر زیب وزینت کے لئے بویا جاتا ہے۔
 السَّيْكَاهُ: فَنٌ مَوْسِمِيٌّ كَالِإِكْرَامِ (جدید)
 سَالٌ: (ش) سَيْلًا وَسَيْلَانًا وَمَسَيْلًا
 وَمَسَالًا: الْمَاءِ: بہنا۔ سَالَتْ غُرَّةُ الْفَرْسِ:
 گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی کا لمبا چوڑا
 ہونا۔
 أَسَالُ إِسَالَةً وَسَيْلٌ تَسَيْلًا: الْمَاءِ: جاری
 کرنا۔ بہانا۔ أَسَالُ الْجَامِدِ: پگھلانا۔ أَسَالُ
 غِرَازِ النَّصْلِ: لمبا کرنا۔
 تَسَائِلُ الْقَوْمِ: ہر طرف سے آنا۔
 السَّائِلَةُ: مِنَ غُرْرِ الْخَيْلِ: گھوڑے کی ناک

سَعَجٌ: الْحَائِطُ بِالطَّيْنِ: دیوار کا مٹی سے لپٹا
 السَّيْ: تیل وغیرہ ملنا۔
 أَسَاعٌ: السَّيْ: ضائع کرنا۔
 السَّيْعُ: مصل۔ سطح زمین پر بننے والا پانی۔
 السَّيَاعُ: کارا۔ کھگل۔
 السَّيْعَاءُ وَالسَّيْعَاءُ: رات کا حصہ۔ کہا جاتا
 ہے "عَوْرَجَتْ بَعْدَ سَيْعَاءٍ مِنَ اللَّيْلِ" رات
 کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد میں نکلا۔
 السَّيْسَعَةُ: کرنی۔ کھگل کرنے کا اوزار۔
 نَاقَةٌ (سَيْبَاعٌ) بچہ کو چھوڑ کر چرنے کے لئے
 جانے والی اونٹنی۔
 سَاعٌ يَسْبِغُ سَيْغًا: الْمَرْابُ: خوشگوار
 بنانا۔
 السَّيْعُ: مِنَ الْمَرْابِ: خوشگوار شراب۔
 نَاقَةٌ تَسْبِغُ سَيْغًا: الْيَدُ: ناخن کے
 ارد گرد پھشنا۔
 سَافَةٌ يَسْبِغُهُ سَيْغًا: تلوار سے مارنا۔
 تَسْبِغَةٌ: تلوار سے مارنا۔
 سَائِقُوا وَتَسَائِقُوا وَاسْتَأْفُوا اسْتَيْفًا: باہم
 تلوار بازی کرنا۔ وَأَسَيْفُ الْقَوْمِ: تلوار
 سے مارا جاتا۔
 السَّيْفُ: تلوار۔ ج أَسْيَافٌ وَسَيْوُفٌ
 وَأَسَيْفٌ وَمَسَيْفَةٌ (وَالسَّائِفُ) تلوار سے
 مسلح۔ سَيْفُ الْجَبَّارِ: تین ستاروں کے
 نام۔ سَيْفُ الرِّيَاحِ: ایک قسم کی نباتات۔
 السَّيْفُ وَالسَّيْفُ: ایک قسم کی پھلی جس کی
 لمبی سی چونچ نیزہ کی مانند ہوتی ہے۔
 السَّيْفُ: سمندر کا کنارہ یا چیز کا کنارہ۔ ج
 أَسْيَافٌ: وہ چیز جو سمندر کے ڈھلے کی جڑ میں



ش: الشين: بنيادی حروف میں سے ہے تیر ہواں ہے۔

الشؤنوب: بارش کی بو چھاڑ۔ دھوپ کی تیزی۔ ہر چیز کی حد۔ ہر چیز کی شدت و دفع۔ آغاز حسن۔ ج شائب: کہا جاتا ہے "هُوَ حَسَنٌ شَائِبٌ الْوَجْهِ" اس کے چہرے کا آغاز حسن اچھا ہے۔

الشَيْت: شہو کرکھانے والا گھوڑا۔ شَاجِحٌ يَشَاجِحُ: الامْرُؤُ مَمْلُوكٌ كَرْتَا۔

شَيْرٌ (س) شَاوْرًا وَشُوْرَةً وَشُوَاوْرًا. الْمَسْكَانُ: سخت اور بلند ہونا۔ ناہموار ہونا۔

صفت (شَاوْرٌ وَشُوْرَةٌ) (..... و شَيْعٌ) بے آرام ہونا۔ ڈرنا۔

شَاوْرٌ (ف) شَاوْرًا. الْخَارِيَّةُ: جماع کرنا۔

أَشَاوْرَةٌ: رنجیدہ کرنا۔ بے آرام کرنا۔ ڈرانا۔

أَشَاوْرُ الرَّجُلِ: عَنِ كَثْدَا: بلند ہونا۔

إَشَاوْرٌ: بَدْرُكْنَا. الشَّوْرَةُ: اسمُ رَجُلٍ شَاوْرَةٍ: موٹا گھوڑا۔

المَشْوُورُ والمَشْوُورُ: بے آرام۔ بے قرار۔ خوفزدہ۔

شَيْسٌ (س) شَائِسًا. الشَّيْ: سخت ہونا۔

..... الرَّجُلُ: مرضِ يَأْغَمُ سَ بَ قَرَارِ هَوْنَا.....

الْمَسْكَانُ: سخت و سنگریزہ دار ہونا۔ مَسْكَانٌ (شَيْسٌ وَشِيَانِسٌ): سخت و سنگریزہ والی جگہ۔

ج شَيْسٌ وَشُوْسٌ. شَائِسًا شَائِسًا وَشَائِسًا. الرَّاعِي. الْغَنَمِ أَوْ الْحَمِيرِ وَبِهَا: شَائِسًا وَشُوْسًا: کہہ کر ہانکنا۔ النَّخْلَةُ: درخت خراما میں گایا گائنا۔

تَشَائِسًا. الْقَوْمُ: شترق ہونا۔ بگھرنا۔

الشَّائِسَاءُ: مَصْ - ایک قسم کی رودی کھجور۔ کھجور کے لمبے درخت۔

شَيْفَتٌ (س) شَائِفًا. الرَّجُلُ: آبلہ پڑنا۔

صفت (مَشْوُوفَةٌ) شَيْفَتٌ أَصَابِعُهُ: ناخنوں کے ارد گرد پھٹنا۔ (..... شَائِفًا وَشَائِفَةً) فَلَانًا

وَلِفْلَانٍ: بغض رکھنا۔

شَيْفٌ: خوفزدہ ہونا۔ ڈرایا جانا۔ صفت (مَشْوُوفٌ) شَيْفَتٌ الرَّجُلُ: آبلہ پڑنا۔

إِسْتَشَائِفَتِ. الْقَرْحَةُ: خراب ہو کر جڑ پکڑ لینا۔

شَائَفٌ. الْجَوْحُ: زخم کی خرابی۔

الشَّائِفَةُ: جڑ لکڑے کا زخم۔ کہا جاتا ہے "إِسْتَأْصَلَ شَائِفَةً" اس نے اسے جڑ سے کھود دیا۔

و"بَيْنَهُمْ شَائِفَةٌ" ان کے درمیان عداوت ہے۔

وَإِسْتَأْصَلَ الْمَلَّةُ شَائِفَتَهُمْ" اللہ تعالیٰ ان کی عداوت کو دور کرے۔ شَائِفَةٌ الرَّجُلِ: اہل و مال۔

رَجُلٌ شَائِفَةٌ: معزز و بلند مرتبہ مرد۔

شَامٌ (ف) شَائِمًا. الْقَوْمُ وَعَلَيْهِمْ: بدبختی ڈالنا۔ صفت (شَائِمٌ)

شَوْمٌ (ک) شَائِمَةٌ وَشَيْمٌ. عَلَيْهِمْ: بخوس و نامبارک ہونا۔

شَائِمُهُمْ: ملک شام کی طرف روانہ کرنا۔

شَاءَمٌ مَشَاءَمَةٌ: بہ: بائیں طرف لینا۔ الرَّجُلُ: ملک شام میں آنا۔

تَشَاءَمٌ وَتَشَائِمٌ: ملک شام کی جانب منسوب ہونا۔ بائیں طرف ہونا۔

تَشَاءَمٌ وَاسْتَشَاءَمٌ: بہ: بدفالی کرنا۔ بدشگون لینا۔

الشَّوْمُ: نحوست۔ کالے اونٹ۔ الشَّامُ وَالشَّامُ: ملک شام۔

الشَّامِيُّ وَالشَّامِيُّ وَالشَّامِيُّ: ملک شام کی جانب منسوب۔

الشَّامِيَّةُ: نحوست لانے والا۔ الشَّاعَةُ وَالْمَشَائِمَةُ: نحوست۔

الشَّيْمَةُ وَالشَّيْمَةُ: مَخْلُقٌ - طَبِيعَةٌ - عَادَةٌ - ج شَيْمٌ.

الْأَشَامُ: اسمُ تَفْصِيلٍ أَوْ رَاسِيٍّ سَ بَ "أَشَامٌ" كَلِمَةُ امْرَأَةٍ بَيْنَ لَيْسِيَّةٍ وَهَرَادِيٍّ كَو بَدْبَحْتِي

لانے والی چیز اس کے دونوں جڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان۔ بدبختی لانے والا۔

مَوْتٌ شُوْنِي. وَالْيَدُ الشُّوْنِي: بائیں ہاتھ۔

الْأَشَائِمُ. إِشَامٌ: کی جمع۔

المَشْوُومُ وَالْمَشْوُومُ: مَخْوُوسٌ - بَدْبَحْتٌ - ج مَشَائِمٌ.

شَائِنٌ (ف) شَائِنًا: صاحبِ عِزْتٍ وَ مَرْتَبَةٍ ہونا۔ کہا جاتا ہے "شَائِنٌ شَائِنُكَ" اس نے تمہارے ارادے جیسا ارادہ کیا۔

"تَمَّا شَائِنٌ شَائِنُكَ" اس نے تمہارے کام کی پروا نہیں کی۔ "وَإِشَانٌ شَائِنُكَ" اپنی حالت پر رہو۔

إِشَانٌ. شَائِنُكَ: کسی کے ارادے جیسا ارادہ کرنا۔

الشَّانِجُ شُوُونٌ وَشَيَانٌ وَشَعِينٌ: بڑے بڑے امور و احوال۔ معاملہ۔ حالت۔ کہا جاتا ہے مِنْ شَانِهِ كَذَا وَأَنْ يَفْعَلَ كَذَا اس کی طبیعت سے ہے کہ ایسا کرے۔ و"مَشَانُكَ" تمہارا کیا حال ہے؟ تمہارا کیا معاملہ ہے؟ ج شُوُونٌ وَشُوُونٌ: سر کی ہڈیوں کے ملنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "تَلَفَّتِ الرَّايِحَةُ إِلَى شُوُونِ رَاسِهِ" خوشبو اس کے سر کی ہڈیوں کے ملنے کی جگہ تک پہنچ گئی۔ پہاڑ کی مٹی کہ جس میں درخت اُگیں..... شُوُونٌ وَأَشُوُونٌ: رگ کہ جس سے آنسو جاری ہوں۔ کہا جاتا ہے "فَاضَتْ شُوُونُهُ" اس کی آنکھ کی رگیں جاری ہو گئیں..... الشُّوُونُ: حاشیوں۔ کہا جاتا ہے "كَلَفَفْنِي شُوُونُكَ" اپنی حاشیوں کی خدمات میرے سپرد کرو..... شُوُونُ الْخَمْرِ: شراب کا اثر جو جسم کی رگوں میں سرایت کرے۔ شَائِي يَشُوُ وَشَاوًا وَأَشَاعَى إِشْتَاءً: القَوْمُ: آگے بڑھ جانا۔ شَائِي الشَّرَابِ مِنَ الْبِنْرِ: کنوئیں سے مٹی نکالنا۔ شَاءَى مَشَاءَةً: القَوْمُ: آگے بڑھنا۔ آگے بڑھنے میں مقابلہ کرنا۔ تَشَاءَى تَشَائِيًا: القَوْمُ: ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ متفرق ہونا۔ تَشَاءَى مَايَبْنَهُمَا: فاسلہ پر ہونا۔ الشَّوَا: مِص - دت - غایت۔ کہا جاتا ہے "فَلَانَ بَعِيدَ الشَّوَا" یعنی فلاں عالی ہمت ہے و"عَدَا الشَّوَا" وہ ایک چکر دوڑا۔ الشَّوَا: اونٹنی کی مہار۔ اونٹنی کی بیگنیاں۔ زنبیل۔ کنوئیں کی نگلی ہوئی مٹی۔ المِشَاءَةُ: کنوئیں کی نگلی ہوئی مٹی۔ ٹوکری جس سے کنوئیں کی مٹی نکالی جائے۔ ج المِشَائِي. الشَّائَةُ: تالے کی جھڑ۔

شَبُّ (ن ض) شَبِيْبًا وَشَبَابًا وَشُبُوْنَا. الشُّبُوْبُ: عمدہ بنانے والا۔ آراستہ کرنے والا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا شُبُوْبٌ لِكَذَا" یہ اس کے حسن و قوت کو بڑھانے والا ہے۔ مثلاً "الْحِمَارُ شُبُوْبٌ لِيُجَهِّبَهَا" اور مٹی اس کے چہرے کی رونق کو بڑھا دیتی ہے (..... وَالشَّبَابُ) جس سے آگ جلائی جائے۔ الشَّبَابَةُ: ایک قسم کی بانسری (مولدہ)۔ عوام اس کو منجھیرا کہتے ہیں۔ الشَّبَابُ وَالشَّبُّ: جوان۔ ج شَبَابٌ وَشَبَانٌ وَشَبِيْبَةٌ مَوْتٌ شَابَةٌ وَشَبَّةٌ ج شَابَاتٌ وَشَبَاتٌ وَشَوَابٌ وَشَبَابِيْبٌ. المِشْبُوبُ: شیر۔ المِشْبُوْبُ: مِنَ الرِّجَالِ: تیز خاطر مرد۔ المِشْبُوْبَانُ: زہرہ و شتری۔ فَازٌ مَشْبُوْبَةٌ: بھڑکانی ہوئی آگ (نَارٌ شَابَةٌ: نہیں بولتے۔) الشَّبِيْبُ: سونے کا ساگ۔ شَبْتُ (س) شَبْنَا وَتَشَبْتُ: بگھڑنا۔ معلق ہونا۔ رَجُلٌ (شَبِيْبَةٌ) اِنِّے مقابل کو چھیننے والا۔ الشَّبِيْبُ: ایک قسم کی ترکاری۔ الشَّبِيْبُ: بکڑی۔ ایک قسم کا کبوتر جس کی ٹانگیں بہت ہوتی ہیں۔ ج أَشْبَاتٌ وَشَبِيْبَانٌ رَجُلٌ (شَبِيْبٌ): چھیننے والی طبیعت والا مرد۔ الشَّبَاتُ وَالشَّبُوْتُ: ٹیڑھے سرے والی سیخ۔ ج شَبَابِيْبٌ. الشَّبِيْحُ: البَابُ: دروازہ بھینٹا۔ الشَّبِيْحُ: بلند دروازہ یا دروازہ واحد (شَبِيْحَةٌ) شَبِيْحٌ (ف) شَبِيْحًا. الشُّيْ: پھاڑنا۔ چیرنا..... الحِلْدُ: کھونٹیوں سے کس کر پھیلا نا..... الرِّجْلُ: بھینٹنا..... الذَّاعِي: دعا کے لئے ہاتھ پھیلا نا..... فَلَانَالَةُ: کسی کے سامنے سیدھا کھڑا ہونا۔

شَبُّ (ن ض) شَبِيْبًا وَشَبَابًا وَشُبُوْنَا. الشُّبُوْبُ: عمدہ بنانے والا۔ آراستہ کرنے والا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا شُبُوْبٌ لِكَذَا" یہ اس کے حسن و قوت کو بڑھانے والا ہے۔ مثلاً "الْحِمَارُ شُبُوْبٌ لِيُجَهِّبَهَا" اور مٹی اس کے چہرے کی رونق کو بڑھا دیتی ہے (..... وَالشَّبَابُ) جس سے آگ جلائی جائے۔ الشَّبَابَةُ: ایک قسم کی بانسری (مولدہ)۔ عوام اس کو منجھیرا کہتے ہیں۔ الشَّبَابُ وَالشَّبُّ: جوان۔ ج شَبَابٌ وَشَبَانٌ وَشَبِيْبَةٌ مَوْتٌ شَابَةٌ وَشَبَّةٌ ج شَابَاتٌ وَشَبَاتٌ وَشَوَابٌ وَشَبَابِيْبٌ. المِشْبُوبُ: شیر۔ المِشْبُوْبُ: مِنَ الرِّجَالِ: تیز خاطر مرد۔ المِشْبُوْبَانُ: زہرہ و شتری۔ فَازٌ مَشْبُوْبَةٌ: بھڑکانی ہوئی آگ (نَارٌ شَابَةٌ: نہیں بولتے۔) الشَّبِيْبُ: سونے کا ساگ۔ شَبْتُ (س) شَبْنَا وَتَشَبْتُ: بگھڑنا۔ معلق ہونا۔ رَجُلٌ (شَبِيْبَةٌ) اِنِّے مقابل کو چھیننے والا۔ الشَّبِيْبُ: ایک قسم کی ترکاری۔ الشَّبِيْبُ: بکڑی۔ ایک قسم کا کبوتر جس کی ٹانگیں بہت ہوتی ہیں۔ ج أَشْبَاتٌ وَشَبِيْبَانٌ رَجُلٌ (شَبِيْبٌ): چھیننے والی طبیعت والا مرد۔ الشَّبَاتُ وَالشَّبُوْتُ: ٹیڑھے سرے والی سیخ۔ ج شَبَابِيْبٌ. الشَّبِيْحُ: البَابُ: دروازہ بھینٹا۔ الشَّبِيْحُ: بلند دروازہ یا دروازہ واحد (شَبِيْحَةٌ) شَبِيْحٌ (ف) شَبِيْحًا. الشُّيْ: پھاڑنا۔ چیرنا..... الحِلْدُ: کھونٹیوں سے کس کر پھیلا نا..... الرِّجْلُ: بھینٹنا..... الذَّاعِي: دعا کے لئے ہاتھ پھیلا نا..... فَلَانَالَةُ: کسی کے سامنے سیدھا کھڑا ہونا۔

شَبُّ (ض) شَبَابًا وَشَبِيْبَةً. الغَلَامُ: جوان ہونا۔ کہتے ہیں "مِنْ شَبِّ إِلَى دَبِّ" جوانی سے بڑھا پے تک۔

الشَّبَابُ وَالشَّبِيْبَةُ: مِص - جوانی، بلوغ سے تیس برس تک کا زمانہ۔ ابتداء جیسے "شَبَابُ النَّهَارِ" دن کی ابتداء۔ الشَّبَابُ: بمعنی تشہیب کہا جاتا ہے۔ "قَصِيْدَةٌ حَسَنَةٌ الشَّبَابِ" اچھی تشہیب والا قصیدہ اور شبیبہ کی

شَبَّحَ (ك) شَبَّاحَةً: لَبَّيْهِ چوڑے بازوؤں والا ہونا۔

شَبَّحَ: بُوڑھے ہونے کی وجہ سے ایک چیز کو دو دیکھنا..... الشُّبْحِيُّ: چھیلنا۔ چوڑا کرنا۔

تَشَبَّحَ: الْحَرْتَاءُ عَلَى الْعُودِ: گرگٹ کا ککڑی پر دراز ہونا۔

الشُّبْحُ وَالشَّبَّحُ: شَخْصٌ بِلِنْدِ عَمَارَتِهَا كَالشُّبْحِ وَرَوَاهُ: رَجُ شُبُوحٍ وَأَشْبَاحٍ. اشْبَاحُ السَّمَالِ: نَظَرَ آتَى وَالْأَمَالَ جِيسَ أَوْنَتْ كَأَنَّ كَبْرِي وَغَيْرَهُ۔

الشُّبْحَةُ: اِسْمُ مَرَّةٍ كَمَا جَاءَتْ فِي "نَزَعَ سَقْفَ بَيْتِي شُبْحَةً شُبْحَةً" اس نے میرے گھر کی چھت سے ایک ایک کڑی نکال لی۔

.....عِنْدَ الْحَوْلِيِّينَ: كُحُوْرٌ كِي تَائِكِيں پانہ ہنے کی رسی۔

الشُّبْحَةُ: وَهُ تَصَادِرٌ بِرُجُوسِكِيں پَر سِيْمَا مِيں دكھائی جاتی ہیں۔

الشُّبْحَانُ: لَمْبَا۔ الشُّبْحَانُ: مَنَقَلَةٌ: كَهَيْلِ كُوْدِي دُو كَلْبَايَا (دِي كَيْفِي مَنَقَلَةٌ)

الشُّبْحُ: دُو دُو دُو هِنِي كِي آواز۔ الشُّبْدَعُ وَالشُّبْدَعُ وَالشُّبْدَعَةُ: مَجْهُو۔

مَصِيْبَتِ رِي بَانَ: رَجُ شَبَادِعِ. شَبْرَ (ن ض) شَبْرًا: الْفُؤْبُ وَنَحْوُهُ: بَالِشْتِ سَ نَاطِنَا۔ شَبْرَةٌ مَالَا: كَسِي كُو مَالِ دِي نَا۔

شَبْرَ (س) شَبْرًا: الرَّجُلُ: اَكْرَنَا۔ اَتْرَانَا۔ شَبْرُ: الشُّبْحِيُّ: اَمْدَا زَهُ كَرَنَا..... فَلَانَا: تَعْتِيْمُ كَرَنَا۔

اَشْبَرُ: فَلَانَا: فَضِيْلَتِ دِي نَا..... ه مَالَا: دِي نَا الرَّجُلُ: لَبَّيْهِ قَدِ كِي بِيُوں وَالَا هُو نَا۔

پِي تَقْدِ بِيُوں وَالَا هُو نَا۔ تَشَابَرُ: الْفَرِيْقَانِ فِي الْحَرْبِ: اِيكِ دُو سَرِي كِي قَرِيْبِ هُو نَا۔ يِهَاں تَك كَر اِيكِ بَالِشْتِ كَا فَاصِلَرَهُ جَائِي۔

تَشَبَّرُ: بَرَا هُو نَا۔ الشُّبْرُ: مَصْ۔ مِهْر۔ كَمَا جَاءَتْ فِي تَزْوُجْهَا وَ لَمْ

يُغَطِّهَا شَبْرَهَا" اس نے اس عورت سے نکاح کیا اور اس کو مہر نہیں دیا۔ نکاح۔ عمر۔

تَدْوَقَاتِ: الشُّبْرُ: عَمْرٌ۔ بَالِشْتِ۔ رَجُ اَشْبَارِ: كَمَا جَاءَتْ فِي "هُوَ قَصِيْرُ الشُّبْرِ" وَهُ قَرِيْبُ قَرِيْبِ قَدَمِ رَكْنِي وَالَا هُو۔

الشُّبْرُ: عَطِيَّةٌ۔ خِيْرٌ۔ الشُّبْرَةُ: عَطِيَّةٌ۔ الشُّبْرَةُ: تَدْوَقَاتِ (طَوِيْلُ هُو يَاقِيْمِيْر) الشُّبُوْرُ: نِيْلٌ۔ رَجُ شَبَابِيْنِزِ وَشُبُوْرَاتِ (كَلِمَةُ عِيْرَانِي هُو) الشَّابُوْرَةُ: شُجْحٌ (كَهْرٌ جَدِيْدٌ) شَابُرٌ: الْمِيْزَانُ: چُوْر۔

فَلَانُ (اَشْبُرُ) مِيْنَكُ: فَلَاں تَمِ سَ وَنِيْعِ بَالِشْتِ وَالَا هُو۔

الاشْبُوْرُ: اِيكِي شَمِ كِي مَجْجَلِي۔ الشَّابِرُ: نَشِيْبِي رِيْمِيں سَ كَرْنِي وَالِي دَرِيَا جِي مِيں هَر دُو جَانِبِ كَا پَانِي آ تَا هُو۔ وَاحِدٌ (مَشْبُرٌ وَمَشْبُرَةٌ) شَبْرَقَةٌ: كَلْبَرِي كَلْبَرِي كَرَنَا۔ شَبْرَقَ اللَّحْمِ: پَارِ چَ پَارِ چَ كَرَنَا۔ شَبْرَقَتِ الدَّابَّةُ فِي مَشِيْهَا..... جَانُوْر كَا دُوْر دُوْر قَدَمِ رَكْنِي..... الْبَاذِي الصَّيْدِ: نُوچِنَا اُوْر پَهَاژ نَا..... الْفُؤْبُ: بَرَا نِنَا۔

الشُّبَارِقُ وَالشُّبَارِقُ: كَلْبَرِي۔ كَمَا جَاءَتْ فِي "فُؤْبُ شَبَارِقِي وَشَبَارِقِي" وَشَبْرَقَ وَشَبْرَقِي: كَلْبَرِي كَلْبَرِي كَرَنَا كَمَا هُو كِي بَرَا۔ الشُّبْرِقُ: لَمْبَا كَا بِيْرِي۔ رَجُ شَبَارِقِ. الشُّبْرَقَةُ: كِيْرِي كَا كَلْبَرَا۔ الشُّبْرَاقُ: مِيْنِ كِيْلِ شَيْءٍ مَجْجَلِي۔ فُؤْبُ (مَشْبُرِقُ) بُرَا نِنَا هُو كِي بَرَا۔ الشُّبْرُمُ: پِي تَقْدِ۔ الشُّبْرُمَةُ: لَمْبَا۔ الشُّبْرِيْقُ: آ سِيْبِ زُوْدِ۔ تَشَبَّصَ: الشُّجْرُ: آ پِيں مِيں گَھَا هُو اُو نَا۔ الْفَيْبَصُ: دُوْر خْتِ كِي كَانُوں كَا آ پِيں مِيں

گَھَا هُو اُو نَا۔ مَجْجَلِي۔

شَبَّاطُ: تَرَكِي مِهِيْتِ۔ مَطَابِقِ فَرُوْرِي۔

النُّشُوْطُ وَالشُّبُوْطُ وَالشُّبُوْطُ: اِيكِي قِسْمِ كِي مَجْجَلِي جِس كَا سَرِ جُجُو نَا اُوْر دَر مِيَانِي حِصَّه چُوْرَا هُو تَا هُو۔ رَجُ شَبَابِيْنِطِ

شَبَّعَ (س) شَبَّعًا وَشَبَّعًا. وَمِنِ الطَّعَامِ: عِلْمٌ سِيْرِ هُو نَا۔ تَمِ كِي تَبِي هُو "شَبَّعْتُ مِنْ هَذَا الْاَمْرِ وَرُوَيْتُ" بَلَكِي تَمِ كِي مَحَاْمَلِه سَ لُوْلِ هُو جَاؤِ۔

شَبَّعَ (ك) شَبَّاعَةً: عَقْلُهُ: بِيْتِ عَقْلِ وَالَا هُو نَا۔ شَبَّعْتُ: غَنَمُهُ: آ سُوْدُ كِي قَرِيْبِ هُو نَا۔ اَشْبَعُهُ: كَلَا كَر شَمِ سِيْر كَرَنَا..... الشُّبْحِيُّ: زِيَادَه كَرَنَا..... الْفُؤْبُ مِيْنِ الصَّبْغِ: خُوْبِ گَهْر اَر كَلْنَا..... الْكَلَامُ: مَكْمَلِ كَمَا نَا۔ تَشَبَّعَ: بِحَكْمِ عِلْمِ سِيْرِ هُو نَا۔ ظَا هِر كَرَنَا۔ بِيْتِ كَمَا نَا۔

الشُّبَّعُ وَالشُّبَّعُ: كَمَا نَا كِي وَهُ مَقْدَارُ جُو سِيْر كَر دِي۔ الشُّبَّاعَةُ: آ سُوْدُ كِي بَعْدِ بِيَا هُو اُو كَمَا نَا۔ الشُّبَّعَةُ: اِيكِي مَرْتَبَةُ بِيْتِ مَجْرِي كِي مَقْدَارِ۔ الشُّبَّعَانُ: عِلْمٌ سِيْرِ۔ مَوْنَتِ شَبَّعِي وَشَبَّعَانَةُ رَجُ شَبَّاعِ وَشَبَّاعِي كَمَا جَاءَتْ فِي "هِيَ شَبَّعِي السُّبَّاعُ" وَهُ يَرُودُ كُوْشْتِ بَا زُو وَا لِي هُو۔ وَ"شَبَّعِي الْخُلُخَالِ اُو السُّوَارِ وَالْبِيْرُوعِ" لِي عِنِ مَوْنِي۔ الشُّبَّعَةُ: عِلْمٌ سِيْرِ عُوْرَتِ۔

الشُّبَّعُ: بِيْتِ۔ كَمَا جَاءَتْ فِي "فُؤْبُ شَبَّعِي الْغَزَلِ" بِيْتِ سُوْتِ وَالَا كِيْرُ اُو "رَجُلٌ شَبَّعُ الْعَقْلِ" بِيْتِ عَقْلِ وَالَا مَرْدِ وَ"جَبَلٌ شَبَّعٌ" بِيْتِ لُؤں وَالِي رَسِي۔ رَجُ شَبَّعِ. شَبَّيْقُ (س) شَبَّيْقًا: بِيْتِ شُهُوْتِ وَالَا هُو نَا۔ حَفَّتِ (شَبَّيْقِي) مَوْنَتِ شَبَّيْقَةَ. مِيْنِ اللَّحْمِ: كُوْشْتِ كَمَا نَا سَ بَدِ مَضْمِي هُو نَا۔ الشُّوْبِقُ: بِيْلِيْنِ۔ رَجُ شُوْبِقِي (كَلِمَةُ فَارِسِي هُو) شَبُوْر (شُوْبِيْك) هُو فُتْحِ شِيْمِيْنِ اُوْر كَا فِ سَ چُوْبِكِ مَاعْرَبِ هُو۔ شَبَّكْتُ (ض) شَبَّكًا: الْاَمُوْرُ: اِيكِي

دوسرے میں داخل ہونا۔ غلط ملط ہونا۔
 پیچیدہ ہونا۔ شَبَّكَهُ غَنَةً: غافل کر دینا
 (شَبَّكَ وَشَبَّكَ) الشَّيْءُ: ایک دوسرے
 میں ملانا۔ تم کہتے ہو "شَبَّكَتُ أَصَابِعِي
 بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ وَشَبَّكَتُ بَيْنَ أَصَابِعِي"
 میں نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں
 داخل کیا۔

أَشْبَكَ. السُّومُ: نزدیک نزدیک کنوئیں
 کھودنا۔ "أَشْبَكَ الْمَكَانُ" قریب کنوئیں
 والی ہونا۔

شَابَكَ. بَيْنَ الْأَصَابِعِ: انگلیوں کو ایک
 دوسرے میں داخل کرنا۔

تَشَابَكَتِ الْأُمُورُ: باہم تھلپ تھلپ ہونا۔
 اشْتَبَكَ وَتَشَبَّكَ: تھلپ تھلپ ہونا۔ بعض کا
 بعض میں داخل ہونا..... الْكَلَامُ أَوْ الْأُمُورُ:
 پیچیدہ ہونا۔

الشَّبَّكَةُ: شکاری کا جال۔ رَجَّ شَبَّكَ
 وَشَبَّكَ وَشَبَّكَتِ. الشَّبَّكَةُ: بہت کنوئیں
 والی زمین۔ قریب قریب والے کنوئیں۔
 الشَّبَّكَةُ: قرابت۔

طَرَبَقَ (شَابَكَ) مشتہر و پیچیدہ راستہ۔ رَجَّ
 شَوَابِكَ.

الشَّبَّائِكُ: جال بنانے والا۔

الشَّبَّائِكُ: درپچی جس میں لکڑی یا لوہے کی
 چھڑیں لگی ہوئی ہوں۔ کھڑکی۔ رَجَّ
 شَبَّائِيكَ الشَّبَّائِكُ: شکاری کا جال۔

شکاری۔ گویا کہ یہ شباہ کی جمع ہے۔ جیسے
 قاری کی جمع قراء۔

الشَّبَّائِكُ: بھگڑے۔
 الْمُشَبَّكَ: ایک قسم کا کھانا۔

شَبَّلَ (ن) شَبُولًا. الْغَلَامُ: لڑکے کا ناز و
 نعمت میں بڑھنا اور جوان ہونا۔ صفت
 (شَابِلٌ)..... هُنِي بِنِي فَلَانٍ: پرورش پانا۔

أَشْبَلُ. عَلَيْهِ: مہربانی کرنا۔ مدد کرنا۔

أَشْبَلْتُ السَّمْرَةَ عَلَى أَوْلَادِهَا: شوہر کی
 وفات کے بعد بچوں کی دیکھ بھال کرنا اور
 نکاح نہ کرنا۔

الشَّبِيلُ: شیر کا بچہ جب کہ وہ شکار کرنے کے
 قابل ہو جائے۔ رَجَّ أَشْبَالَ وَشَبَالَ وَأَشْبَلَ
 وَشَبُولَ. أَبُو الْأَشْبَالِ: شیر۔
 لَبْوَةٌ (مُشْبِلٌ) بچوں والی شیرنی۔
 مَكَانٌ (مُشْبُولٌ) بہت شیر کے بچوں والی
 جگہ۔

شَبِمَ (ن) شَبَمًا وَشَبِمَ. الْجُدَى: بکری
 کے بچہ کے منہ میں تھوٹھی لگانا۔

شَبِمَ (س) شَبِمًا. الْمَاءُ: پانی کا ٹھنڈا
 ہونا۔

الشَّبِمُ: سردی۔

الشَّبِمُ: صبح۔ شام یا بھوک کے ساتھ صبح
 شام۔ الشَّبِمُ: ہتھیار۔ زہر۔ موت۔

الشَّبَامُ وَالشَّبِيمُ: لکڑی جو بکری کے بچہ کے
 منہ میں لگا دی جائے تاکہ دودھ نہ پیے۔

الشَّبَامُ: برقع کے دودھا گے جن کو غور میں
 پیچھے باندھ لیتی ہیں۔

المُشَبَّمُ: تھوٹھی لگا ہوا بکری کا بچہ۔ بھوکا۔

شَبِنَ (ن) شَبِنًا. الْغَلَامُ: لڑکے کا نازک
 اندام وہ گوشت ہونا۔ (..... شَبُونًا) الشَّيْءُ:
 قریب ہونا۔

الشَّبَائِنُ. مِنَ الْعُلَمَانِ: نازک اندام پر
 گوشت لڑکا۔

الشَّبِينُ وَالْإَشْبِينُ: دولہا کا خدمت گار۔
 شَبِينَةٌ وَاشْبِينَةٌ: دلہن کی خدمت گار (کلمہ
 سریانیہ ہے)

الشَّبَائِي وَالْأَشْبَائِي وَالشَّبَائِي: سرخ
 چہرے اور موچھوں والا۔

شَبِيهَةٌ. إِسَاءَةٌ وَشَبِيهَةٌ بِهِ: تشبیہ دینا۔ تمثیل
 دینا۔ شَبَّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ: مشتہر کرنا۔ شَبَّهَ
 الشَّيْءُ: مشکل ہونا۔

شَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ: مشتہر کیا جانا۔

أَشْبَهَهُ وَشَابَهَهُ: مانند ہونا۔ مشابہ ہونا۔ أَشْبَهَ
 فَلَانٌ أُمَّه: فلاں اپنی ماں کے مشابہ ہے یعنی
 عورت کی مانند جڑو ضعیف ہے۔

تَشَبَّهَ بِهِ: مانند ہونا عمل میں مشابہت کرنا۔

تَشَابَهَ. الرَّجُلَانِ: ایک دوسرے کے مشابہ

ہونا۔ الْأَمْرُ: مُتَشَابِهٌ: یعنی غیر محکم ہونا۔
 إِشْبَهَا: ایک دوسرے کے مشابہ ہونا۔ إِشْبَهَهُ
 فِي

الْأَمْرِ: صحیح ہونے میں شک کرنا..... الْأَمْرُ
 عَلَيْهِ: پوشیدہ اور مشتہر ہونا۔

الشَّبَهُ وَالشَّبَهُ: مثل مانند۔ رَجَّ أَشْبَاهَهُ
 وَمَشَابِهَهُ: جیسے (حسن و محاسن) الشَّبَهُ:
 مشابہت ایک خار و ارناتات جس کے پھول

سرخ ہوتے ہیں۔ (الشَّبَهُ وَالشَّبَهُ
 وَالشَّبَهَانِ وَالشَّبَهَانِ) بیتل۔

الشَّبَهَةُ: مثل۔ التَّبَاسُ: شک۔ جس میں حق
 و باطل یا حلال و حرام کا التَّبَاسُ ہو۔ رَجَّ شَبَّهَهُ
 وَشَبَّهَاتِهِ.

الشَّبِيهَةُ: مثل۔ ایک جیسے۔ رَجَّ شَبَّاهَهُ.

المُشَبَّهَةُ وَالْمُشَبَّهَةُ: مِنَ الْأُمُورِ: مشکل جس
 میں التَّبَاسُ واقع ہو۔ کہا جاتا ہے "إِشْبَاكَ
 وَالْمُشَبَّهَاتِ" اپنے آپ کو امور مشکل سے

بچاؤ۔

الْمُشَبَّهَةُ: اسلامی فرقوں میں سے ایک فرقہ
 جو کہ اللہ تعالیٰ کو صفات و اسما میں مخلوق کے
 ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔

شَبَّأَيْشُبُو شَبُونًا. الشَّيْءُ: بلند ہونا
 الْقَرَسُ: گھوڑے کا دوناتوں پر کھڑا
 ہونا۔

..... الوُجْهَةُ: چہرے کا متغیر ہونے کے بعد
 چمکانا..... النَّازُ: آگ جلانا۔ روشن کرنا۔

أَشْبَى إِشْبَاءً. الرَّجُلُ: دینا..... عَلَيْهِ:
 مہربان ہونا..... هُ: تعظیم و اکرام کرنا۔

مصیبت میں ذُلْنَا..... الشَّجَرُ: لمبا اور
 پیچیدہ ہونا..... الشَّيْءُ: ہٹانا..... الرَّجُلُ:
 ذہین بچوں والا ہونا۔ صفت (مُشَبَّسِي
 وَمُشَبَّب)

الْأَوْلَادُ أَبَاهُمْ: اولاد کا اپنے باپ کے مشابہ
 ہونا۔

الشَّبَاةُ: نوزائندہ بچھو یا زرد بچھو۔ دوناتوں
 پر کھڑا ہونے والا گھوڑا..... مِنَ السَّيْفِ:
 دھار۔ بچھو کا ڈنک۔ ہر چیز کی حد۔ رَجَّ شَبَا

.....

وَسَيَوَات: بے وقوف مرد۔ کہا جاتا ہے "هَذَا زَجَلٌ شَبَاةٌ" یہ بے وقوف مرد ہے۔

شَبَوَات: بچھو کے لئے علم اور سے اور علمیت تانیف کی وجہ سے غیر منصرف ہے اور بھی اس پر الف لام بھی آتا ہے۔

الشَّبْوُ: دکھ۔ تکلیف۔

شَتَّ (ش) شَتَاً وَشَتَانًا وَشَيْتًا: متفرق ہونا (.....) وَشَتَّتْ وَأَشَّتْ) الْأَشْيَاءَ: متفرق کرنا۔ کہا جاتا ہے "أَشَّتْ بِنِي قَوْمِي" میری قوم نے میرے کاموں کو پراگندہ کر دیا۔

تَشَّتْ وَأَنْشَتْ وَأَسْتَشَّتْ: الشَّمْلُ: متفرق ہونا۔

الشَّتْ: مص۔ پراگندگی۔

أَمَرُ (شَتْ وَشَتَات) پراگندہ و متفرق۔ کام (مصدر سے وصف لایا گیا ہے) جِ أَشَّتَات کہا جاتا ہے "جَاءَ وَأَشَّتَاتَا وَجَاءَ وَأَشَّتَاتِ شَتَات" وہ لوگ متفرق در متفرق ہو کر آئے۔ نصب حالت کی وجہ سے ہے۔

شَتَانٌ: بنی علی الفتح اور بھی نون مکسور ہوتا ہے۔ اسم فعل سے بعد کے معنی میں۔ کہا جاتا ہے "شَتَانٌ بَيْنَهُمَا وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا زَيْدٌ وَأَخُوهُ" یعنی ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔

الشَّيْتِيت: مص۔ پراگندہ۔ متفرق۔ جِ شَعِي (جیسے مریض و مرضی) كَسَفَرُ شَيْتِيت: چھدرے دانت۔

أَنَاسٌ (شَعِي وَشَتُو) مختلف قبائل کے لوگ۔ اَشْيَاءَ شَعِي: مختلف چیزیں اور کہا جاتا ہے "وَقَفَعُوا هِنِي أَمْرَ شَعِي" وہ لوگ متفرق امور میں پڑ گئے۔

شَعْرٌ (ن ش) شَعْرًا: الشَّيْءُ: کاٹنا۔ نکلنے نکلنے کرنا..... الرَّجُلُ: زخمی کرنا..... الْعَيْنُ: پلک الٹنا۔

شَعِرٌ (س) شَعْرًا: کتنا۔ بچھنے کے پھلے ہوئے ہونٹ والا ہونا..... بے: گالی دینا۔ (.....) وَشَعِرٌ: اُلْتِي ہوئی پلک والا ہونا یا بچھنے کے ڈھیلے پلک والا ہونا۔

شَعْرٌ: عَيْنُهُ: پلک الٹنا۔ گالی دینا۔ عیب لگانا۔ بچھ یا تیس سنانا۔

أَشَعْرَتْ: عَيْنُهُ: اُلْتِي ہوئی پلک والی ہونا۔

أَشَعْرٌ: مص۔ کتنا۔ پلک الٹنا۔ عیب و نقص۔ الشُّعْرَةُ: دوا لکٹیوں کے درمیان کا فاصلہ۔

الشَّعِيرُ: بہت عیب و برائی والا۔ بدخلق۔

الْأَشْعَرُ: اُلْتِي ہوئی پلک والا۔ بچھی ہوئی پلک والا۔ بچھنے کی ڈھیل پلک والا۔ بچھنے کے پھلے ہوئے ہونٹ والا۔ مَوْنَتْ شَعْرَاءُ: جِ شَعْرٌ: الشُّوْتَرَةُ: بڑے سرین کی عورت۔

شَعِيعٌ (س) شَعْمًا: بیماری یا بھوک کی وجہ سے کھیر الٹنا۔

شَتَفَهُ (ض) شَتَفًا: روندنا۔ ذلیل کرنا۔

أَشْتَفَهُ: تلف کرنا۔ ہلاک کرنا۔

المَشَاتِيعُ: ہلاکتیں۔

شَتَلٌ يَشْتَلُ شَتْلًا وَشَتَلٌ أَشْتَلٌ: (سریانی لفظ) پودے کو ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ لگانا۔ الشَّعْلَةُ "اشتل" کا واحد۔ وہ پودا جس کو ایک جگہ سے نکال کر دوسری جگہ لگایا جائے۔ اس کو ہماری زبان میں "بیری لگانا" بولتے ہیں۔

أَلْمَشْتَلُ: بیج لگانے کی جگہ تا کرانے کے بعد اسکو دوسری جگہ لگایا جا سکے۔ (گرین ہاؤس) أَلْمَشْتُولُ: وہ شخص جس کا لباس غیر منظم ہو۔

شَمَمَةٌ (ن ض) شَمَمًا وَمَشَمَمَةٌ وَمَشَمَمَةٌ وَمَشَمَمَةٌ وَشَمَمًا: گالی دینا (شَمَمًا) گالی دینے میں غالب ہونا۔ کہا جاتا ہے "شَمَمَمَةٌ فَشَمَمَمَةٌ" اس نے اس سے گالی دینے میں مقابلہ کیا اور غالب رہا۔

شَمَمٌ (ك) شَمَامَةٌ: بد صورت و کربہ النظر ہونا۔ صفت (شَمِيمٌ) الشَّيْتِيمُ: غضبناک شیر۔

شَمَمَةٌ: بہت گالی دینا۔ شَمَامَةٌ: باہم گالی گلوچ کرنا۔ تَشَمَمٌ: القَوْمُ: ایک دوسرے کو گالی دینا۔ تَشَمَمٌ: گالی سننے کے در پے ہونا۔

الشَّمَامَةُ: مص۔ بد صورتی کے ساتھ بدن کی

درستی۔

الشَّيْمَةُ: گالی۔ جِ شَتَانِمُ۔

الشَّتَامُ وَالشَّتَامَةُ: برے چہرہ والا۔ بدخلق۔

الشَّتَامُ وَالشَّتَامَةُ: بہت گالی دینے والا۔ الشَّتَامَةُ: شیر غضبناک۔

شَتْنٌ (ن) شَتْنًا: الشُّوْبُ: کپڑے کو بونا

صفت (شَتَانِ)

الشَّتْنُ: مص۔ کہا جاتا ہے "زَجَلٌ شَتْنٌ الْكُفُّ" سخت پھلے والا مرد۔

الشَّتُونُ: بننے والا۔

شَتَا يَشْتُو شَتْوًا وَشَعِي تَشِيَّةٌ وَتَشَعِي تَشِيًّا: بالبلد: کسی شہر میں جاڑے میں قیام کرنا۔ شَتَا وَتَشَعِي الْمَكَانُ: بزمانہ سرما قیام کرنا۔ شَتَاةٌ: بزمانہ سرما کے لئے کافی ہونا۔

شَتَا يَشْتُو شَتْوًا وَشَعِي تَشِيَّةٌ وَتَشَعِي تَشِيًّا: موسم سرما میں داخل ہونا۔ موسم سرما میں قحط سالی کی تکلیف اٹھانا اور کہا جاتا ہے "هَذَا شَعِي يَشِيئِنِي" یہ زمانہ سرما میں میرے لئے کافی ہوگی۔ شَتَا الشَّيْءُ: سردی پڑنا۔

شَتَايَ مَشَاتَاةٌ وَشَعَاءُ: الرَّجُلُ: جاڑے بھر کے لئے معاملہ کرنا۔

الشَّيْءُ: مص۔ موسم سرما۔ جِ أَشِيَّةٌ وَشَعِي اور نسبت کے لئے (شَعْوِي وَشَعْوِي) الشَّوِي) جاڑے کی بارش فَاكْبَهَةِ الشَّيْءِ: آگ۔

الشَّيْءُ وَالشَّيْءَا: قحط۔

الشَّيْءَةُ وَالشَّوْفَةُ: جاڑا۔ صاحب الشَّوْفَةُ: وہ شخص جس کے پاس جاڑے میں پناہ لیں۔

الشَّيْءِي: جاڑے کی بارش۔ الشَّمَشِي وَالْمَشَقَلَةُ: جاڑے کا زمانہ یا جاڑے کی جگہ۔ موسم سرما گزارنے کی جگہ۔

جِ الْمَشَاتِي: کہا جاتا ہے هَذِهِ مَشَاتِينَا وَمَشَاتِينَا وَمَشَاتِينَا وَمَشَاتِينَا: یہ ہمارے سرمائی و گرمائی درختی منازل ہیں۔

أَلَشَّتْ: چھوٹے سب کی طرح خوشبودار

کڑوے مزے کے پھل کا ایک درخت جس میں کانٹے نہیں ہوتے اور اس کے پتوں کو چمڑے کی دباغت میں استعمال کرتے ہیں۔ جنگلی اخروٹ۔ شہد کی کھیاں۔ پہاڑ کی چوٹی جو ٹوٹنے کے بعد کنگرہ کی مانند رہ جائے۔ رَج شِفَاثٌ وَاحِدٌ (الشَّفْثَةُ)

الشَّفْثُ: ہر چیز کی بہت تعداد۔
شَفْرَثٌ (س) شَفْرَا. غَيْنُهُ: آگھ موٹی ہونا۔

الشِّفْرُ: پہاڑ کا کنارہ۔ رَج شُفُورٌ. قِنْدَةُ (شِشْرَةُ) نیزہ کہ جس کے کنگرے ٹوٹنے کے وقت اڑیں۔

شَيْلَتْ (س) شَفَلَا وَشَفَلَتْ (ك) شُؤْلَةٌ. أَصَابُهُ: موٹی ہونا۔

شَيْلٌ. الْأَصَابِعُ: سخت اور موٹی انگلیوں والا۔
قَدَمٌ (شَفْلَةٌ) موٹا اور سخت قدم۔

شَيْنٌ: بمعنی ششل۔

شَيْحٌ (ن ض) شَجَا. الرَّاسُ: زخمی کرنا۔ توڑنا۔ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ يَشْحُ مَرَّةً وَيَأْسُومَرَّةً" فلاں کبھی غلطی کرتا ہے کبھی درست کرتا ہے۔ شَيْحُ الْمَفَاذَةِ: بیابان طے کرنا۔

..... الْمَرْكَبُ الْبَحْرِيُّ: جہاز کا سمندر کو پہاڑنا۔

..... الشَّرَابُ بِالسَّمَاءِ: طوٹی کرنا۔ کہا جاتا ہے "شَيْحُ الْأَرْضِ بَرٌّ لِجَلْبِهِ" یعنی بہت تیز چلایا۔

شَيْحٌ (س) شَجَجَا: سر میں زخم یا نشان زخم والا ہونا۔ صفت (أَشْحٌ وَشَجِيحٌ) ج شَيْحِي (مَشْجُوحٌ وَمَشْجِيحٌ) الشَّجِيحُ وَالْمَشْجِيحُ: مَیْحٌ۔ کھوٹی۔

شَجَجْتُهُ: سر کو بہت زخمی کرنا۔ شَجَجَ عَلَيَّ الْأَمْرُ: پختہ ارادہ کرنا۔

شَايَ مُشَايَةً وَشَجَا جَا وَشَايَ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کے سر کو زخمی کرنا۔

الشَّجَا: فضائے آسمانی۔

الشَّجَّةُ: سر کا زخم۔ رَج شَجَا ج. الشَّجِيحُ: مَصٌّ۔ پیشانی میں زخم کا نشان۔

الشَّجَا ج: سر کو بہت زخمی کرنے والا۔

شَجَجْتُهُ (ن) شَجَجْنَا: ہلاک کرنا۔ غمگین کرنا۔ کھینچ کر مشغول کرنا۔ کہا جاتا ہے "إِنَّكَ لَنَشْجِبُنِي عَنْ حَاجَتِي" تو مجھ کو میری حاجت میں مشغول رکھتا ہے۔

"شَجِبَ الْقَيْنَةُ بِشَجَابٍ" اس نے شیشی میں ڈاٹ لگائی۔

شَجِبَ (ن) شَجَبْنَا وَشَجُونَا وَشَجِبَ (س) شَجَبْنَا: ہلاک ہونا۔ مرنا۔ غمگین ہونا۔ صفت (شَجِبٌ وَشَجِيحٌ).....

الشَّيْ: جانا۔

شَجِبَ (ن) شَجِيْنَا. الْغُرَابُ: کوا کے لے آواز کرنا۔ اَشَجِبَةُ: غمگین کرنا۔

تَشَجَّبَ. الشَّيْ: غلط ملط ہونا۔ بعض کا بعض میں داخل ہونا۔

تَشَجَّبَ: غمگین ہونا۔

الشَّجِبُ: مَصٌّ۔ حاجت۔ غم۔ ستون خانہ۔ مشک کہ جس کا نصف کاٹ کر ڈول بنا لیں۔ رَج شَجُوبٌ وَأَشْجَابٌ.

الشَّجِبُ: مَصٌّ۔ رَجٌ وَتَكْلِيْفٌ جَوْمَرُضٍ يَأْتِيهِ كِي وَجَدٌ لَاتِحٌ يَوْمَ رَجِ شَجُوبٍ.

الشَّجَابُ: بہت بک بک کرنے والا۔

مِنَ الْغُرَبَانِ: بہت کائیں کائیں کرنے والا۔ کوا۔

الشَّجَابُ: شیشی وغیرہ کی ڈاٹ۔ رَج شُجْبٌ (.....) وَالشُّجْبُ وَالْمِشْجَبُ):

ککڑی کا اسٹینڈ جس پر کپڑے رکھے اور پھیلائے جاتے ہیں۔

الشَّجَبَاءُ: مشک۔

الشَّجْدَةُ: نرم بارش۔ المَشْجَاذُ: گوچین۔

شَجَرَ (ن) شَجَرْنَا. الشَّيْ: ہاندھنا۔ فَلَانًا: علیحدہ کرنا۔ منع کرنا۔ کہا جاتا ہے "مَا شَجَرَكَ عَنْ كَذَا" تم کو فلاں سے کس چیز

نے روکا..... الرَّجَالُ بِالرَّمْحِ: نیزہ مارنا..... فَحْمَةٌ: ککڑی سے کھولنا..... الدَّابَّةُ: جانور کو ٹھہرانے کے لئے لگام سے مارنا یہاں تک کہ مزہ کھول دے..... الشَّجْرَةُ: درخت کے بعض حصے کو پکڑنا..... النَّبَاتُ: ستون لگانا۔

..... النَّبَاتُ: جھکی ہوئی ٹہنیوں کو اٹھانا۔

شَجَرَ (ن) شَجَرْنَا وَشَجُرْنَا. بَيْنَهُمْ أَمْرٌ: مختلف فیہ ہونا اور کہا جاتا ہے "شَجَرَ مَا بَيْنَهُمْ" باہم جھگڑنا۔

شَجَرَ (س) شَجَرْنَا. الرَّجُلُ: بہت جمعیت والا ہونا۔

شَجَرَ. النَّبَاتُ: درخت ہو جانا..... النَّخْلُ: ٹوٹنے کے خوف سے خوشگوشی پر رکھنا۔

شَاجِرَةٌ مُشَايِرَةٌ: جھگڑا کرنا..... الْمَائِيَّةُ: گھاس وغیرہ ختم ہو جانے سے درخت کے پتوں پر گزرا رہ کرنا..... الْمَائِيَّةُ: جانوروں کو درخت چرانا۔

أَشَجَرَ. الْمَكَانُ: درخت اگانا۔

تَشَايَرُوا الْقَوْمُ: باہم مخالفت کرنا۔ باہم جھگڑا کرنا۔ تَشَايَرُوا بِالرَّمْحِ: باہم نیزہ بازی کرنا..... الشَّيْ: بعض کا بعض میں داخل ہونا۔

إِنْشَجَرَ: جلدی سے چمٹکارا پانا..... نَوْمُهُ: نیند کا دور ہونا۔

إِنْشَجَرَ. الْقَوْمُ: باہم جھگڑنا..... الرَّجُلُ: آگے بڑھنا۔ جلدی سے چمٹکارا پانا۔ ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ کا سہارا دینا اور اسی سے ہے "بَاتٌ مُرْتَفِقًا مُشْتَجِرًا".

..... نَوْمُهُ: نیند کا دور ہونا۔

الشَّجَرُ: درخت۔ رَج أَشْجَارٌ وَشَجَرَاءٌ. وَاحِدٌ (شَجْرَةٌ) شَجَرَاتٌ. شَجْرَةٌ: النَّسَبُ: جس میں مورث اعلیٰ سے لے کر اولاد اور اولاد تک کا بیان ہو۔ الشَّجْرَةُ: الْمَلْفُونَةُ: تھوہر کا درخت درخت۔ شَجْرَةُ الْخِيَاتِ أَوْ شَجْرَةُ مَعْرِفَةِ الْخَيْرِ مِنَ الشَّيْرِ: وہ درخت جس کا پھل کھانے سے

حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔

نَبَاتٌ حَشْبِيٌّ: دراز قد پودے (درخت) قدرتی جنگلات میں یا خود بوئے گئے ان میں سے ایک قسم۔ ہمیشہ سرسبز یا موسم کی وجہ سے ان کے پتے گر جاتے ہیں۔ زیادہ تر لکڑی کے لئے لگائے جاتے ہیں اور کچھ خوبصورتی کے لئے لگائے جاتے ہیں۔

شَجَرُ الْمَطَاطِ: ریز کا درخت جو کہ لمبا ہوتا ہے خاص کر جنوب مشرق ایشیا میں۔

شَجَرَةُ الْخَيْزُ: وہ درخت جس کے بڑے بڑے پھل ہوتے ہیں ان کو کوٹ کر پیس کر روٹی پکائی جاتی ہے۔

شَجَرُ الزُّبَيْقِ: وہ درخت جس کے پھل خزائی پودے کی طرح خوبصورت اور خوشبودار ہوتے ہیں۔ اس کے پھلکے صحت افزا ہوتے ہیں۔

الشَّجَرُ: درخت۔ شجر میں ایک لخت ہے۔

الشَّجَرُ: مص۔ مختلف فیہ امر۔ ٹھوڑی یا دونوں جزوں کے درمیان کا حصہ۔ من کا وہ حصہ جو بند کرتے وقت ظاہر ہو۔ ج اشجار و شجور و شجاعة. الحُرُوفُ الشَّجَرِيَّةُ: ش ض ج اور بقول بعض۔ ش ج ق کی۔

الشَّجَرُ: منہ کھلنے کی جگہ۔

الْحُرُوفُ الشَّجَرِيَّةُ: جو کہ منہ کھلنے کی جگہ سے ادا ہوں وہ شین۔ ضاد اور جیم ہیں۔

الشَّجْرَةُ: اسم مرء۔ چاہ زخداں۔

مَكَانٌ (شَجْرٌ وَشَجِيرٌ وَأَشْجُرٌ وَمُشْجِرٌ)

درختوں والی یا بہت درختوں والی جگہ۔

مَوْنُثٌ شَجْرَةٌ وَشَجِيرَةٌ وَشَجْرَاءٌ وَشَجْرَةٌ.

الشَّجْرَاءُ: گنجان درخت۔ گنجان درختوں

والی زمین اور اس کے مقابلہ میں مردار

ہے۔ یعنی وہ زمین جس میں درخت نہ ہوں

اور اس سے ہے "قَطَعْتُ كُلَّ شَجْرَاءٍ

وَمَسْرَفَاءٍ" میں نے ہر قسم کی گنجان درختوں

والی اور پھیل زمین طے کی۔

الشَّجَارُ وَالشَّجَارُ: ہودہ کی لکڑی۔ کھلے ہوئے سر کی چھوٹی پاکی۔ الشَّجَارُ:

دروازے کے پیچھے لگانے کی لکڑی۔ تھوٹی

یعنی لکڑی جو بکری کے بچے کے منہ میں لگائی

جائے تاکہ دودھ نہ پیے۔ کنوئیں پر کی

لکڑی۔ اونٹ کا داغ۔ ج شجور.

الشَّجِيرُ: تلوار۔ اجنبی اونٹ یا آدمی۔ بُرَا

ساتھی۔

الشَّجَارُ: درختوں کا ماہر۔ ج شجارون.

الشَّوْاجِرُ: مشغول رکھنے والی چیزیں۔

مَوَالِيعُ.

رِمَاحٌ شَوَاجِرُ: ایسے نیزے جن کے گھاؤ

مختلف جگہ ہوں۔

المَشْجَرُ وَالْمَشْجَرُ: ہودہ کی لکڑی کھلے

ہوئے سر کی چھوٹی پاکی۔ المشجور درخت

کی جگہ۔ المشجور: لکڑی کا سینڈ جس پر

کپڑے رکھے یا پھیلائے جاتے ہیں۔ ج

مشاجر.

مَكَانٌ (مُشْجِرٌ): بہت درختوں والی جگہ۔

ثَوْبٌ (مُشْجِرٌ) درخت کی طرح نقش و نگار

سے مزین کپڑا۔ اہل چین کی تحریر کو بھی

مُشَجَّرٌ کہتے ہیں۔ اس لئے کہ وہ بھی

درخت کی طرح ہوتی ہے۔

شَجَعٌ (ك) شَجَاعَةٌ: دلیر و بہادر ہونا۔

شَجَعَةٌ (ن) شَجَعًا: دلیری و بہادری میں

غالب ہونا۔

شَجَعٌ (س) شَجَعًا: لمبا ہونا۔ صفت

(أَشْجَعُ): مَوْنُثٌ شَجَعًا.

شَجَعُهُ: قوی دل بنانا..... عَلِيٌّ الْأَمْرُ:

جرات دلانا۔

شَاجِعَةٌ: دلیری میں مقابلہ کرنا۔

تَشَجَعٌ: بہادر بننا۔ بتکلف دلیری ظاہر کرنا۔

الشَّجَاعُ وَالشَّجَاعُ وَالشَّجَاعُ: دلیر۔

بہادر۔ جری۔ ج شجعان و شجعان

و شجاع و شجعنا و شجعنة و شجعنة و شجعنة و شجعنة.

الشَّجَاعُ وَالشَّجَاعُ: ایک قسم کا سانپ۔ ج

شُجَاعٌ وَشُجَعَانٌ وَأَشْجَعَةٌ.

زَجَلٌ (شُجَعَةٌ وَشُجَعَةٌ): عاجز بزدل مرد۔

بے ڈول لمبا۔

الْأَشْجَعُ: اسم تفضیل۔ بہادر۔ مَوْنُثٌ

شُجَعًا. ج شُجَعٌ: شیر لمبا۔ آگے بڑھنے

والا اونٹ۔ ایک قسم کا سانپ۔ زمانہ۔

الْأَشْجَعُ وَالْأَشْجَعُ: انگلی کی جڑ جو ظاہر کف

کے ٹپھے سے علی ہوتی ہے یا ہتھیلی کی پشت کی

رگ۔ ج اشجاع.

الشَّجَعُ: بہادر۔ دیوانہ اونٹ۔ ج حَمَلٌ

شَجَعُ الْقَوَائِمِ: جلدی قدم اٹھانے والا

اونٹ۔

الشَّجِيْعُ: دلیر۔ بہادر۔ ج شُجَعَانٌ

شَجَاعٌ وَشُجَعَاءٌ وَأَشْجَعَةٌ مَوْنُثٌ

شَجِيْعَةٌ. ج شَجَانِعٌ وَشَجَاعٌ وَشَجِيْعٌ.

الشَّجِيْعُ: درخت کی جڑیں۔

الشَّجَاعَةُ: دلیری۔ بہادری۔ خوف کے

وقت دل کی مضبوطی۔

المُشْجِعُ: انتہائی پاگل۔

الشَّجَعَمُ: شیر۔ لمبا قد۔ جسم انسان یا انسان

کی گردن۔

الشَّجَمُ: ہلاکت۔

الشَّجْمُ: لمبی اور بڑی مصیبتیں۔

شَجْنٌ (س) وَشَجْنٌ (ك) شَجْنًا

و شَجُونًا: ممکن ہونا۔ صفت (شَاجِنٌ)

شَجْنَةٌ (ن) شَجْنَا وَشَجُونًا وَشَجْنَةٌ:

ممكن کرنا۔

شَجْنَتْ (ن) شَجُونًا. الحَمَامَةُ: کبوتر کا

غم کے ساتھ نوحہ کرنا۔

أَشْجَنَةٌ: ممکن کرنا۔ أَشْجَنَ الْكُؤْمُ: انگور

کے درخت کا پچیدہ اور الجھی ہوئی شاخوں

والا ہونا۔

تَشَجَّنٌ: حرکت کرنا۔ ممکن ہونا..... الْأَمْرُ:

یا دکرنا..... الشَّجْرُ: درخت کا گنجان ہونا۔

الشَّجْنُ: مص الشَّجْنُ ج شَجُونٌ

(وَالشَّاجِنَةُ ج شَوَاجِنٌ): وادی کا راستہ یا

وادی کے بالائی حصہ کا راستہ۔

الشَّجْنُ: مَص - غَم - اِنْدُوہ - خَوَابِشِ لَفْس -
 رَجُ شُجُونٍ اَشْجَانٍ. (الشَّجْنُ وَالشُّجْنَةُ
 وَالشُّجْنَةُ: اَلْبَحِي هُوَ يَجِيْدُهُ
 ثَمْبِي - هِرْجِيْزِي كِي شَاخ - كَتَبْتِي فِي "الشَّجْنِ
 ذُو شُجُونٍ" لِتَمْنِي بَات فِي مِيْل بَات تَلْفِي سِي -
 الشُّجْنَةُ: پَهَارُكَ شَاخ - شُجْنَةُ وَشُجْنَةُ كِي
 جَمْعُ شُجْنٍ وَشُجْنٍ وَشُجْنَاتٍ وَشُجْنَاتٍ
 وَشُجْنَاتٍ.
 شَجَا (ن) شَجُوا وَاشْجَى اِشْجَاءً.
 الرَّجُلُ: تَمَلَّكِيْن كَرْنَا - خُوش كَرْنَا (ضَد) بِرَا حِيْجِيْتِي
 كَرْنَا - اَشْجَى الْغَرِيْمَ اَو السَّائِلَ: قَرْض
 خَوَاه يَاسَا ل كُو اَس كِي خَوَابِشِ كِي مَطَابِق
 دِيْنَا -
 شَجِي (س) شَجَا: تَمَلَّكِيْن هُوَا بِالشَّجَا:
 طَلْق فِي مِيْل بُوِي بِحِيْس جَانِي سِي كَهْنَا اَو اِسي
 سِي "عَلَيْكَ بِاَلْكَظْمِ اِنْ شَجِيْتِ
 بِالشَّعْطِ" اَكْر تَمَارِي رِي طَلْق فِي مِيْل بُوِي بِحِيْس
 جَانِي تُو اِيْنِي اَو پَر بَر بَادِي كُو لَازِم جَانُو -
 شَجِي الْغَرِيْمَ عِنْدَهُ: جَانَا -
 تَشَا جِي: حَزَن وَدَمَال طَاهِر كَرْنَا -
 الشَّجَا: مِيْس - بُوِي وَغِيْرِهِ جُو طَلْق فِي مِيْل بِحِيْس
 جَانِي - غَم وَانْدُوہ -
 الشُّجُو: مِيْس - غَم - اِنْدُوہ - حَاجَت - كِهَا جَانَا
 هِي "لَا عِنْدِي شُجُو" اَس كِي مِجھ سِي اِيْك
 حَاجَت هِي - گَرِي وَ زَارِي كَا اِيْك دُور - كِهَا
 جَانَا هِي "بِكِي فَلَانُ شُجُوهُ" وَ "بِكِي
 الْحَمَامَةُ شُجُوَهَا"
 الشَّجِي الشَّجِي: تَمَلَّكِيْن - فِكْر مَنْد - مَوْث
 شُجِيَّة وَشُجِيَّة اَو رَسِيْت كِي لِي
 (الشَّجُوِي) مَفَازَةٌ (شُجُوَاء): دُشُوَار گَزَار
 بِيَا بَا -
 الشَّجُو جِي وَ الشَّجُو جَا: لِگَا تَار هُوَا -
 الشَّجُو جِي: بِيْت لِسَا بَا لِسَا مُوِي بُوِي
 وَالا - مَوْنَا فَرِي گُوژَا -
 الشُّجُو: اِنْدُو ہَنَا ك -
 شَع (ن م س) شَخَا وَشَخَا وَشَخَا -
 بِالشُّيْ وَعَلَى الشُّيْ: بَجَل كَرْنَا - حَرَس كَرْنَا -

شَاخ. بِالشُّيْ عَلَى فَلَان: كِسي سِي كِي چِيْز كَا
 بَجَل كَرْنَا ه: كِسي سِي بَجَل كَرْنَا - اِسي سِي
 هِي "لَا مَشَاخَةَ فِي الْاَمْرِ" لِتَمْنِي مَاعِل
 بِاَلْكَل صَاف هِي اَس فِي كُوِي مَنَاقِشِ اَو
 بَجَل كَرْنَا -
 شَاخ. الْقَوْمُ عَلَى الْاَمْرِ وَفِيْهِ: كِسي چِيْز فِي
 بَا مِ بَجَل كَرْنَا - تَشَاخُوا عَلَى الشُّيْ: اِيْنِي
 لِي اِخْتِيَار كَرْنِي كَا اِرَادِي كَرْنَا - تَشَاخُ
 الْخَصْمَان فِي الْجَدَلِ: هِرَا اِيْك كَا عَاقِب
 هُوْنِي كَا اِرَادِي كَرْنَا -
 الشَّخ: مِيْس -
 الشَّخِيح: بَجَل - حَرِيْس - رَجُ شَخَا ح
 وَاشْخَةٌ وَاشْخَاءٌ مَوْثِ شَخِيْحَةٍ. رَجُ
 شَخَا ح. اِبْلُ شَخَا ح: كَم دُو دُو وَا لِي
 اَو نِثِيَا -
 الشَّخَا ح: بَجَل - حَرِيْس - الشَّخَا ح مِيْن
 الْاَرْضِ: وَهُ زَمِيْن جُو غِيْرِي زِيَادِي بَارَش كِي پَانِي
 نِي بَهَا يِي - زَنْدُ شَخَا ح: چِتْمَاق جُو آگ نِي
 دِي "مَاءُ شَخَا ح" هُو زُو پَانِي جُو زَمِيْن كُو نِي
 وَهَكِي -
 شَحَب (ف ن) وَشَحَب (ك)
 وَشَحَبٌ شُحُوْبَةٌ وَشُحُوْبَاتٌ. لُوْنُهُ: بَجُو ك يَ
 مَرَض وَغِيْرِهِ كِي وَجِي سِي چِيْرِي سِي كَارَنگ بَدَلَا -
 الشَّاحِب: قَا - لَآغَر يَارَنگ بَدَلَا هُوَا اَو كِهَا
 جَانَا هِي "شَاحِبُ اللَّوْنِ" جِي سِي كِهَا جَانَا هِي
 "شَاحِبُ الْجِسْمِ".
 شَحَتْ (ف) شَحَطًا. الْمُذِيْبَةُ: چِمْرِي تِيْز
 كَرْنَا -
 شَحَج (ف ض) شَحَجْنَا وَشَحَا جَا
 وَتَشَحَا جَا وَتَشَحَج. الْبَغْلُ اَو الْغَرَابُ:
 خِيْر كَا بِنِيَانَا - كُو سِي كَا كِي مِيْس كَرْنَا -
 الشَّحَا ج وَ الشَّحَا جِي وَ الشَّحَا جِي: گُوْرْخَر
 بِنَاتُ شَحَا ج وَ بِنَاتُ شَاحِيْج: خِيْرِي -
 شَحَا ج: الْبَغْلُ اَو الْغَرَابُ وَ (شَحِيْجُهُمَا)
 خِيْرِيَا كُو لِي كِي آواز -
 الشَّوَا جِي: كُو سِي -
 شَحَذ (ف) شَحَذًا. السُّكِّيْنُ وَنَخُوَةٌ:

چِمْرِي تِيْز كَرْنَا - صَفْت مَفْعُو لِي (شَحُوْذُ
 وَشَحِيْد) هِي بِنَصْرِهِ: گُوْرْنَا هِي بِيْتِيْهِ:
 نَظَر بَدَلَا گَانَا -
 الشُّجُوْعُ مَعْدَنَةُ: بَخْت بَجُو ك لِي گَانَا فِي
 التَّسْوُلِ: مَانگَنِي مِيْس بِيْت اِصْرَار كَرْنَا - كِهَا جَانَا
 هِي "هُوَ يَشْحَذُ النَّاسَ" وَهُ لُو گُو لِي سِي
 اِصْرَار سِي مَانگَنِي هِي عَلَيْهِ: غَضَبْنَا ك
 هُوَا - السُّذَابَةُ: جَانُو رُو كُو تِيْز بَانگَنَا
 وَتَشْحَذُهُ: بِنَانَا - دِهَكَرَا نَا وَتَشْحَذُ الرَّجُلُ
 : سُوَال كَرْنِي مِيْس اِصْرَار كَرْنَا -
 اَشْحَذُ. السُّكِّيْنُ: چِمْرِي تِيْز كَرْنَا -
 شَاخَذُهُ: لُوَا رُو غِيْرِهِ تِيْز كَرْنِي مِيْس مَشَابِيْت
 كَرْنَا -
 الشَّحَاذُ: گِدَا گَر - سَا لِي - رَجُ شَخَا حَا ذَةٌ
 (الشَّحَاذَةُ): گِدَا گَرِي كَا پِيْشِي -
 الشَّحَذَانُ وَ الشَّحَذَانُ: بَجُو كَا - هَانگَنِي وَالا -
 بَا كَا چَلِي وَالا -
 رَجُلٌ (شَحَذُوْذُ) تِيْز اَو رُصْرِي كِي وَ قِْت طِيْش
 مِيْس آ نِي وَالا -
 السُّشْحَذُ: چِمْرِي وَغِيْرِهِ تِيْز كَرْنِي كَا سَامَانُ
 تِيْز بَانگَنِي وَالا -
 السُّشْحَاذُ: نِيْلِي - پِيَاژِي كِي چُوِي - رَجُ
 مَشَا حِيْذُ.
 السُّشْحَلَةُ: وَهُ چِيْز جُو بَاعْث تِيْزِي هُو - كِهَا
 جَانَا هِي "هَذَا الْكَلَامُ مَشْحَلَةٌ لِلْفَهْمِ" يِي
 كَلَام مِجھ كِي لِي بَاعْث تِيْزِي هِي -
 شَحْر (ف) شَحْرًا: مَنِي كُو لَانَا -
 الشَّحْر: مِيْس - پَانِي بِنِي كِي جَلِي - لِيْن وَادِي
 (..... وَ الشَّحْر): كِنَارِي - سَا لِي -
 شَحْر عَمَّان وَ شَحْر عَمَّان: عَمَّان اَو رِعْدَان
 كِي دَر مِيَا ن كَا سَا لِي -
 الشَّحْرَةُ: نِگ سَا لِي -
 الشَّحُوْرُ: كَالِي رَنگ كَا چِيْزِي سِي اِيْك بُوَا
 خُوش آواز پَر نَدِي - رَجُ شَحَاوِيْر اَو رُو
 اَس كُو (شَحُوْر) مِجھ كِهَا جَانَا هِي -
 شَحْر (س) شَحْرًا: مِجھَرَا نَا - دُرْنَا -
 شَحْر (ف) شَحْرًا: جَمَاع كَرْنَا -

شَحْشَحُ: البعير: اونٹ کا آواز کو پھرانا
 الطائر: پرندہ کا جلدی سے اڑنا.....
 چوکنار ہنا..... الضرد: آواز کرنا۔
 الشَّحْشَحُ والشَّحْشَاخُ: بے برکت۔
 بخیل۔ بدخلق۔ بیٹھکی کرنے والا۔
 الشَّحْشُخُ: وسیع بیابان۔ بہادر مرد۔ غیرت
 دار۔ خوش بیان پھرار۔
 الشَّحْشَخَانُ: بخیل۔ غیرت دار۔ لبا۔
 الْمُشْحِشِخُ وَالْمُشْحَشِخُ: بے برکت۔
 اَشْحَصُ: تھکانا..... مِنْ الْبُحْكَانِ
 (وَشَحْصَهُ) عَنهُ: دور کرنا۔ بنانا۔ جلاوطن
 کرنا۔
 الشَّحْشُوضُ: جھکن کی وجہ سے دہلی اونٹنی۔
 شَحَطُ (ف) شَحَطًا وَشَحَطًا وَشَحُوطًا
 وَمَشْحَطًا: اِلْتِنَاءٌ: برتن بھرنا..... الْكَبَنُ:
 دودھ میں زیادہ پانی ملانا..... الْعَقْرَبُ
 الرَّجُلُ: بچھو کا ڈسنا..... الطَّائِرُ: پرندہ کا بیٹ
 کرنا..... فَلَانًا: اس وقت لے جانا
 (.....) وَشِحَطُ (س) شَحَطًا الْمَكَانُ: دور
 ہونا۔ شَحَطٌ وَشِحَطٌ الْجَمَلُ: اونٹ کو
 ذبح کرنا۔
 شَحِطُ: بالذم: خون سے لہڑنا۔
 شَحَطَةُ: خون میں تھیزنا۔
 اَشْحَطَةُ: دور کرنا۔
 تَشَحَطُ: بالذم: خون سے لہڑنا۔
 الشَّحَطُ: مص: خون میں لت پت ہونا۔
 پرندہ کی بیٹ (.....) وَالْمَشْحَطُ:
 انکور کی ٹہنیوں کو اٹھانے کا تھم۔ عوام اس کو
 (مَسْمُوكٌ) کہتے ہیں۔
 الشَّحَاطَةُ: جونی کی ایک خاص قسم جس کو
 گھروں میں بطور رواج پہنتے ہیں۔
 الشَّحَاوِطَةُ: وہ آلہ جس کے ساتھ پتھروں
 میں سوراخ کئے جاتے ہیں۔
 شَحَطٌ يَشْحَطُ عَلَيَّ الْأَرْضِ: بکنچنا۔
 (سریانی)۔
 مَنْزِلٌ (شَاحِطٌ) دُورٌ كِي مَنْزِلٍ۔
 الشَّحَاطُ: دور۔

شَوَّاحِطٌ: الاودية: دور کی وادیاں۔
 الشَّوْحَطَةُ: لمبی گھوڑی۔
 شَحَكَ (ف) شَحْكًا: العَدِيُّ: بکری
 کے بچے کے منہ میں تھوتھنی لگانا۔
 الشَّحَاكُ: تھوتھنی جو بکری کے بچے کے منہ
 میں لگائی جائے تاکہ دودھ نہ پیے۔
 شَحَلُ: الكسومُ: انگور کی تیل تراشا۔ کلمہ
 عامیہ ہے۔ فَحَقَّضَ: ہے۔
 شَحَمَةُ (ف) شَحْمًا: چربی کھلانا۔
 شَحِمٌ (ك) شَحَامَةً: بہت چربی دار
 ہونا۔ صفت (شَحِمٌ)
 شَحِمٌ (س) شَحْمًا: چربی کی خواہش کرنا۔
 صفت (شَحِمٌ)
 شَحِمَتْ (س ن) شَحُومًا: الناقَةُ: لاغری
 کے بعد موٹی ہونا۔
 اَشْحَمٌ: بہت چربی والا ہونا (.....) وَشَحْمٌ
 الْقَوْمُ: چربی کھلانا۔
 الشَّحْمُ: چربی۔ ایک کڑے کو (شَحْمَةٌ)
 کہتے ہیں۔ رَجْ شَحُومٌ۔
 الشَّاحِمُ وَالشَّحَامُ: چربی پیچنے والا۔
 الشَّحَامُ: بہت چربی کھلانے والا۔ کہا جاتا
 ہے "رَجُلٌ شَاحِمٌ لِأَجْمٍ" چربی دار مرد
 گوشت مرد یا لوگوں کو بہت چربی کا گوشت
 کھلانے والا۔
 الشَّحْمَةُ: چربی کا کلا۔ شَحْمَةُ الْأَرْضِ:
 کچھوا۔ سانپ کی چھتری۔ شَحْمَةُ الْأَرْضِ
 وَشَحْمَةُ الرَّمْلِ: گرگت کی قسم کا ایک جانور
 جو زمین یا ریت میں گھس کر رہتا ہے.....
 الْعَيْنُ: آکھ کا نلہ۔ شَحْمَةُ الْأَذْنِ: کان کی
 لو..... شَحْمَةُ الرُّمَّانِ: انار کے اندر کا
 باریک چھلکا..... السَّرْجُ: خطمی اور امثال
 میں سے ہے "مَا كَلُّ يَنْصَأُ شَحْمَةً وَلَا
 كَلُّ سَوَادًا تَمْرَةً" ہر سفید چیز چربی اور ہر
 سیاہ چیز کھجور نہیں ہوتی۔ اس موقع پر بولتے
 ہیں جب کسی ایک صفت میں مشابہت اور
 بقید صفات میں مغایرت ہو۔
 الشَّحْمُ: تھوڑے رس کا انگور۔ چربی کا

حریس۔
 الشَّحِمُ: اکڑ۔
 الشَّحِيمُ: موٹا۔
 الشَّحِيمُ وَالشَّحِيمَةُ: سریانیوں کے
 فرائض نماز کی کتاب (کلمہ سریانیہ ہے)
 الْمُشْحِمُ وَالْمُشْحِمُ: گھر میں بہت چربی
 رکھنے والا۔
 الْمُشْحَمُ وَالْمُشْحُومُ: چربی کی بنی ہوئی
 چیز۔
 شَحَنٌ (ف) شَحْنًا: السَّفِينَةُ: کشتی پر لادنا
 الْمَدِينَةُ بِالْخَيْلِ: بھرنا..... الرَّجُلُ:
 دھتکارنا۔ دور کرنا۔
 شَحَنٌ (ف ن) وَشَحْنٌ (س) شَحْنًا:
 السَّيْلَابُ: کتوں کا دور تک جانا اور شکار نہ
 کرنا۔
 شَحَنٌ (س) شَحْنًا: عَلَيْهِ: کینہ رکھنا۔
 اَشْحَنُ: الْمَكَانُ: بھرنا..... السَّيْفُ: میان
 میں کرنا۔ سومتا (ضد)..... أَلَهُ بِسَهْمٍ: تیر
 مارنے کے لئے تیار کرنا..... الصَّبِيُّ: رونے
 کے لئے آمادہ ہونا۔
 شَاحِنَةٌ: بغض و عداوت رکھنا۔ دشمنی کرنا۔
 الشَّحْنُ: جہاز پر یا ریل گاڑی یا ٹرک پر مال
 ڈالنا۔ السَّيَارَةُ الشَّاحِنَةُ: ٹرک۔
 الشَّاحِنَةُ: شَاحِنَاتٌ: ریل مال گاڑی کے
 لوڈ والے ڈبے۔ ریل گاڑی کے سواری
 والے ڈبے۔ اس کو حاملہ بھی بولتے ہیں۔
 تَشَاحَنُوا: ایک دوسرے سے بغض رکھنا۔
 الشَّحْنَاءُ: بغض۔ کینہ۔ دشمنی۔ عداوت۔
 الشَّحْنَةُ: عداوت۔ دشمنی۔ کشتی بھرنے کی
 چیز۔ شَحْنَةُ الْبَلَدِ: پولیس۔ کوتوال۔
 سواروں کی جماعت کا ایک دستہ۔ کہا جاتا
 ہے "بِالْبَلَدِ شَحْنَةُ مِنَ الْخَيْلِ" شہر میں
 سواروں کی جماعت کا ایک دستہ ہے۔
 الشَّحْنَةُ: چارپایوں کے لئے ایک دن رات
 کا چارہ۔ رَجْ شَحْنٌ: مَرَكَبٌ (شَاحِنٌ):
 بھری ہوئی سواری۔
 الْمُشَاحِنُ: فَا- عَدُوٌّ مُشَاحِنٌ: بہت سخت

دستی کرنے والا دشمن۔

شَخَا يَشْحُو وَيَشْحَاشُحُوا. الرَّجُلُ: عدو

کھولنا..... اللِّجَامُ فَمِ الْفَرَسِ: کھولنا۔ شَخَا

الرَّجُلُ: قدم کو دور دور رکھنا..... الْقَمَمُ: کھلنا۔

أَشْحَى. فَاهُ: کھولنا۔

شَحَى تَشْحِيَةً. فُوَّةٌ: من کھلنا۔

تَشْحَى. عَلَيْهِ: زباں درازی کرنا۔

الشَّحَاءُ: وسیع۔ کشادہ۔ چوڑا۔

الشَّحُوُّ: جوف۔

الشَّحْوَةُ: اسم مرءة۔ قدم۔ کہا جاتا ہے

"فَرَسٌ بَعِيدُ الشَّحْوَةِ" دور دور قدم رکھنے

والا کھوڑا۔ "رَجُلٌ بَعِيدُ الشَّحْوَةِ فِي

مَقْاصِدِهِ" اپنے مقاصد میں عالی ہمت مرد۔

الشَّحْوَاءُ: چوڑا کنواں۔

شَحَى يَشْحَى شَحِيًّا: ایک لغت ہے۔

شحا: وادی میں۔

شَخ (ن) شَخَا: پیشاپ کرنا..... فَبِي

النَّوْمِ: خراٹے لینا..... اللَّيْنُ: دوہنے کے

وقت آواز لگنا۔

شَغَب (ن) شَغَبًا وَمَشَغَبًا. اللَّيْنُ:

دوہنا..... اللَّيْنُ: بہنا..... أَوْ ذَا جِ الْقَيْبِلِ دَمَا:

مقتول کی رگوں سے خون جاری ہونا۔

إِنْ شَغَبَ: دوہا جانا۔

الشَّغَابُ: تازہ دودھ۔

الشَّغِبُ: مصل۔ خون..... (الشَّغِبُ)

دودھ کی دھار۔ واحد (الشَّغِيْبَةُ) ج

شغاب۔

الاشْغُوبُ: تھن سے دودھ نکلنے کی آواز۔

ج اشْغِيْبُ.

فَوَج (شِغِيْبٌ): خون پھینکنے والی رگ۔

الشَّغَابُ وَالشَّغُوبُ وَالشَّغْوَبَةُ:

پھاڑ کی چوٹی۔ ج شَغَاغِيْبُ.

شَخْت (ك) شُحُوْتَةٌ: دلے جسم والا

ہونا۔ صفت (شَخْتٌ وَشَخْتٌ) ج

شِخَاتٌ: کہا جاتا ہے "هُوَ شَخْتٌ الْخُلُقِ"

وہ ادنیٰ اخلاق والا ہے۔" وَهُوَ شَخْتٌ

الْعَطَاءِ" وہ کم داد و بخش والا ہے۔" هُوَ

شَخْتُ الْحِجْرَاةِ" وہ باریک ٹانگوں والا

ہے۔

شَخْتَهُ. إِلَيْهِ: پہچانا۔

الشَّخْتُ وَالشَّخِيْتُ وَالشَّخِيْتُ

وَالشَّخِيْتُ: بلند غبار۔

الشَّخْتُوْرُ وَالشَّخْتُوْرَةُ: ڈوگی۔ جس میں

ایک ہی آدمی سوار ہو۔

شَخْر (ض) شَخِيْرًا: طلق یا ناک سے

آواز نکالنا۔

شَخْر (ض) شَخِيْرًا وَشَخْرًا. الْفَرَسُ أَوْ

الْحِمَارُ: گھوڑے کا نہننا۔ یا گدھے کا

ریٹگنا۔

شَخْرَ الْجِلْسِ: کجاوہ باندھنے کے لئے

جانور کی پیٹھ سے ٹاٹ یا کپل اٹھانا.....

النَّخْلَةُ: ٹوٹنے کے خوف سے کھجور کے

گچھوں کو ٹہنی پر رکھنا۔

الشَّخْرُ: مصل۔ عِنَ الشَّبَابِ: ابتداء جوانی

..... مِّنَ الرَّجُلِ: کجاوہ کے اگلے اور پچھلے

حصہ کی درمیانی جگہ۔

الشَّخِيْرُ: مصل۔ پہاڑ کا وہ حصہ جو قدموں

سے لگ کر گرے۔

الشَّخِيْرُ: بہت خراٹے لینے والا۔

شَخْر (ف) شَخْرًا: مضطرب ہونا۔

..... عَلَيْهِ الْأَمْرُ: دشوار ہونا..... هَذَا لَمْ يَمْضُحْ:

نیزہ مارنا..... بَيْنَهُمْ: اسکا انا اور ساد ڈالنا۔

تَشَاخَرُ الْقَوْمُ: باہم بغض رکھنا۔

الشَّخْرُ: مصل۔ رنج و مشقت کی شدت۔

شَخَس (ف) شَخَسًا. الرَّجُلُ: مضطرب

ہونا..... الْحِمَارُ: گدھے کا جمائی کے وقت

من کھولنا۔

أَشْحَسَ الرَّجُلُ وَبِهِ: غیبت کرنا۔

أَشْحَسَ لَهُ فِي الْمَنْطِقِ: گفتگو میں ترش

روٹی کرنا۔

شَاخَسَ أَمْرُ الْقَوْمِ: مختلف ہونا۔

..... الْحِمَارُ: لید سو گھٹنے کے بعد سراثا کر

من کھولنا۔

تَشَاخَسَ الْحِمَارُ بِمَحْنَى شَخَسَ أَوْ

شَاخَسَ..... أَسْنَانُهُ: بڑھاپے کی وجہ سے گر

کر یا جھک کر بے ترتیب ہونا..... أَمْرُهُمْ:

تباہ و پریشان ہونا۔

الشَّخِيْسُ: حکم کے خلاف کرنے والا۔ امر

مفروق۔

شَخَشَخَ. بِبَوْلِهِ: دور تک پیشاپ کی دھار

گرایا۔ صفت (شَخَشَاخٌ) شَخَشَخَتِ

النَّاقَةُ: بیٹھے ہوئے سینہ اٹھانا۔

الشَّخَشَاةُ: مصل۔ ہتھیار کی جھنکار۔ کاغذ

یا نئے کپڑے یا خشک چیز کی آواز۔

شَخَصَ (ف) شَخُوَصًا. الشَّيْءُ: بلند ہونا

..... عَنِ قَوْمِهِ أَوْ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ: جانا۔

کوچ کرنا..... إِلَيْهِمْ: واپس آنا۔ لوٹنا.....

النَّجْمُ: ستارہ کا طلوع ہونا..... السَّهْمُ: تیر

کا نشانہ سے اوپر اوپر نکل جانا..... الْجُرْحُ:

سوچنا ورم کرنا..... بَصْرُهُ: جھنگلی لگانا۔

الْمَيْثُ بَصْرُهُ وَبِصْرِهِ: میت کی نگاہ کا کھلا

رہ جانا۔

شَخَصَ. بِهِ: کسی امر کے لاحق ہونے سے

بے قرار ہونا۔

شَخَصَ (ك) شَخَاصَةً: موٹا ہونا۔

شَخَصَ. الشَّيْءُ: تعین کرنا۔ تیز کرنا اور اس

سے اطباء کے نزدیک تشخیص امراض ہے۔

أَشْخَصَهُ: بے آرام کرنا۔ بے قرار بنانا۔

أَشْخَصَ الرَّجُلُ: جانے کا وقت قریب

قریب ہونا..... بِهِ: غیبت کرنا..... لَهُ فِي

الْمَنْطِقِ وَأَشْخَصَ إِلَيْهِ: گفتگو میں ترش

روٹی کرنا..... هَذَا: الی قَوْمِهِ: واپس کرنا۔

لوٹانا..... الرَّامِي: نشانہ سے ہٹ کر بلند پڑنا

یا ڈالنا۔ (لازم و متعدی)

تَشَخَّصَ: تعین ہونا۔ تمیز ہونا..... لَهُ: کسی

شخص کی صورت دکھائی دینا۔

تَشَاخَصُوا: باہم اختلاف کرنا۔

الشَّخَصُ: جسم انسانی وغیرہ جو دور سے

دکھائی دے۔ ج اشْخَصَ وَأَشْخَصَ

وَشَخُوَصٌ. الشَّخِيصُ: جیم۔ مَوْنَتُ شَخِيصَةٍ:

الْأَشُدُّ وَالْأَشَدُّ: کہا جاتا ہے "فَلَانٌ بَلَغَ أَشُدَّهُ" یعنی فلاں طاقت و قوت کے زمانہ کو پہنچ گیا اور یہ جمع ہے جس کا واحد نہیں یا واحد ہے جو جمع کے وزن پر ہے۔

الْمِشْدُ: ایک قسم کا کپڑا جس کو عورت اپنی کمر پر باندھتی ہے۔

الْمِشْدُ: مضبوط چوپایوں والا۔

الْمُشْتَدُّ: فا۔ بجیل۔ امور میں سختی کرنے والا۔

شَدَحَ (ف) شَدَحًا: موٹا ہونا۔ صفت (شادخ)

إِنْشَدَحَ: ناگوں کو پھیلا کر چت لیٹانا۔

الشَادِحُ: فا۔ مین الکلاء: وسیع سبزہ۔

الْأَشْدَحُ: چوڑا۔

الشُدْحَةُ وَالْمُشْتَدِحُ: فراخی۔ کشادگی۔ کہا جاتا ہے "لَكَ عَنْهُ شُدْحَةٌ أَوْ مُشْتَدِحٌ" تمہارے لئے اس میں گنجائش ہے۔

شَدَحَ (ف) شَدَحًا: اعتدال سے ہٹ جانا۔ الراس: سر توڑنا۔ کچلنا۔ الرَجُلُ: گردن کٹنے کی جگہ پر مارنا۔ (شَدَحَتْ غُرَّةُ الْفَرَسِ شَدْحًا وَشُدُوخًا): ماتھے کی سفیدی کا ناک تک پھیلنا۔ گھوڑے کو (أَشْدَحَ) کہتے ہیں۔

شَدَحَ: الراس: سر توڑنا۔ (تشدید مبالغہ کے لئے ہے۔)

تَشَدَّخَ وَانْشَدَّخَ: الراس: سر توڑنا۔ کچلا جانا۔

الشَدْحُ: ناتمام بچہ جو آسانی سے گر جائے۔

الشُدْحَةُ: مین النبات: نرم و نازک۔ تازہ نباتات۔

الشَادِحُ: فا۔ چھوٹا جبکہ نرم و نازک ہو۔

غَلَامٌ شَادِحٌ: جوان لڑکا۔ اَمْرٌ شَادِحٌ: اعتدال سے ہٹا ہوا معاملہ۔

الشَادِحَةُ: الشَادِحَةُ: کاموٹ۔ گھوڑے کے ماتھے کی سفیدی جو ناک تک پھیلی ہوئی ہو۔

شَدًا وَلَا إِزْحَاءً" یعنی میں کسی چیز پر قادر نہیں۔

شَدَّ (ض ن) شَدًّا وَشَدَّةً وَشَدْدًا عَلَيَّ الْعَدُوِّ: دشمن پر حملہ کرنا۔

شَدَّ (ض) شَدَّةً: قوی ہونا۔

شَدَّةً: قوی کرنا۔ شَدَّدَ الصَّرْبَ: بہت مارنا۔ عَلَيَّ: بجلی کرنا۔ الْحَرْفُ: تشدید لگانا۔ الشَّىْ: مضبوط کرنا۔

شَادَّةٌ: فِي الْأَمْرِ: غالب ہونے کی کوشش کرنا۔ مقابلہ کرنا۔ جھگڑنا۔ سختی کرنا۔

أَشَدُّ: عقل یا عمر کی پختگی کو پہنچنا۔ مضبوط چوپایہ والا ہونا۔

تَشَدَّدَ: قوی ہونا۔ کسی کام میں سختی کرنا۔

أَشَدَّ: قوی ہونا۔ فِي السَّيْرِ: تیز دوڑنا۔

..... عَلَيَّ قَرْنَهُ فِي الْحَرْبِ شَدَّةً: حملہ کرنا۔

..... عَلَيْهِ الْمَرَضُ: تیز ہونا۔ بڑھنا۔

تَشَادَّ: الشَّىْ: مضبوط ہونا۔

الشَّدُّ: مِمَّنْ: شَدَّ النَّهَارُ: دن چڑھنے کا وقت۔ کہا جاتا ہے "أَتَانَا شَدُّ النَّهَارِ وَفِي شَدِّ النَّهَارِ" وہ دن چڑھنے کے وقت ہمارے پاس آیا اور "شَدُّ الرَّحَالِ" کنایہ ہے سفر سے۔

الشَّدَّةُ: شَدُّ: کا اسم مرۃ۔ لڑائی کا حملہ۔

الشُّدَّةُ: اشیداد کا اسم ہے۔ سختی۔ جنگ۔ شَدَّدَ: والشَّدَّةُ: مصیبت۔ ج شَدَائِدٌ وَشَدَّةٌ الْأَرْضِ: زمین کی سختی۔

الشَّدِيُّ: سختی۔

الشَّدِيدُ: بہادر۔ قوی۔ بلند۔ مضبوط۔ بجیل۔ شیر۔ ج أَشْدَاءُ وَشَدَادٌ وَشُدُودٌ: کہا جاتا ہے "رَجُلٌ شَدِيدٌ الْعَيْنِ" ایسا شخص جس پر نیند کا غلبہ نہ ہو "مِسْكٌ شَدِيدٌ الرَّائِحَةِ" تیز خوشبو والا مشک۔

الشَّدِيدَةُ: الشدید کا موٹ۔ ج شَدَائِدُ: وَالْحُرُوفُ الشَّدِيدَةُ" آٹھ ہیں جن کا مجموعہ "اجدت طبقک" ہے۔

سردار..... مِنَ الْمَنْطِقِ: ترش روئی سے گفتگو کرنے والا۔

الشَّخْفُ: دودھ دھونے کی آواز۔

الشَّخَافُ: دودھ۔

شَخَلَ (ف) شَخْلًا. الشَّرَابُ: صاف کرنا۔ النَّاقَةُ: دوھنا۔

شَاخَلَهُ: خالص دوستی کرنا۔

الشَّخْلُ وَالشَّخِيلُ: خالص دوست۔

الْمِشْخَلُ وَالْمِشْخَلَةُ: چھٹنا۔

الْمِشْخَلَةُ: موتی کے مشابہ سفید مہرہ۔ ایک زیور کا نام جو درخت خرما کی پھال اور مہرہ سے بناتے ہیں اور کبھی اس لڑکی کو بھی مَشْخَلَةٌ کہتے ہیں جو اس زیور کو استعمال کرے۔

شَخَمَ (ن) وَشَخِمَ (س) وَشَخَمَ (ك) شَخْمًا وَشَخْمًا وَأَشْخَمَ. الطَّعَامُ أَوْ اللَّخْمُ: بگڑنا۔ خراب ہونا۔ فاسد ہونا۔ صفت (شَخِمَ) الْقَمُّ: منڈ کا بدبودار ہونا۔ أَشْخَمَ الرَّجُلُ: رونے کے لئے تیار ہونا۔

شَخِمَ. الطَّعَامُ: خراب کرنا۔

..... الطَّعَامُ: خراب ہونا۔ الْقَمُّ: منڈ کا بدبودار ہونا۔

إِشْخَامٌ. النَّيْتُ: خشک و ترگھاس کا آپس میں مل جانا۔

شَخَمَ (أَشْخَمَ) سفید بال۔ زَوْضٌ أَشْخَمٌ: بے نباتات کے بارغ۔ عَامٌ أَشْخَمٌ: خشک سال جس میں نہ پانی ہونے چرگا۔

الشَّخْمُ: وہ لوگ جن کی ناک خوشبو یا بدبو سے بند ہوگئی ہو۔

الشَّخَا: شورہ زار۔

شَدَّ (ض ن) شَدًّا. الرَّجُلُ: دوڑنا۔

..... النَّهَارُ: بلند ہونا۔ عَصْدَةٌ: قوی کرنا۔

..... الشَّىْ: مضبوط کرنا۔ باندھنا۔ کسنا اور اسی سے ہے "شَدُّ الرَّحَالِ" اور یہ کنایہ ہے سفر سے۔ عَلَيَّ يَدِيهِ: اعانت کرنا۔

تَقْوِيْتُ پھینچانا اور کہا جاتا ہے "لَا أَمْلِكُ

الأَشْدَحُ: شير..... مِنَ الْخَيْلِ: ناک تک
چھیلی ہوئی سفیدی والا گھوڑا۔ مَوْنِثُ
شَدْحَاءُ: ج شُدْحُخ۔
المُشْدَحُ: مفتح۔ گردن کٹنے کی جگہ۔
الشَّادِرُ: تخت رواں۔ خیمہ۔ چھوٹا مکان۔
شَدْفَةُ (ض) شَدْفًا: بکڑے بکڑے کا ٹٹا۔
شَدْفُ (ف س) شَدْفًا: القَرَسُ: گھوڑے
کا ٹھیلیں کرنا۔
أَشْدَفُ: اللَّيْلُ: رات کا تاریک ہونا۔
تَشَادَفُ: جھکنا۔
الشَّدْفُ: مفتح۔ رخسار کا جھکاؤ۔ اونٹ کے
سر کی پیچیدگی۔ تاریکی۔ کالبد۔ ج
شُدُوفُ۔
الشَّدِفُ: لمبا جلدی کوونے والا۔
الشُّدْفَةُ: بکڑا (الشَّادُوفُ): ڈوچھی۔
چھاگل (جدید)
الأَشْدَفُ: رخسارہ کے جھکاؤ والا۔ نشاط کے
ساتھ چلنے والا اونٹ۔ بڑے ڈیل ڈول کا
گھوڑا۔ بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا۔
مَوْنِثُ شَدْفَاءُ: ج شُدْفُ۔
شُدِيقُ (س) شُدْفًا: چوڑے چوڑے والا
ہونا۔ صفت (أَشْدِقُ): مَوْنِثُ (شَدْفَاءُ) ج
شُدْقُ۔
تَشْدُقُ: جھکنا۔ فصاحت ظاہر کرنے کے
لئے بائیں کھولنا..... بِالْكَلامِ وَفِيهِ: بغير
احتیاط کے ہر قسم کی باتیں کرنا۔ لوگوں کے
ساتھ ٹھنھا کرنا۔
الشَّدِيقُ وَالشَّدِيقُ: جبراً۔ شُدِيقُ الوَادِي:
وادی کا کنارہ۔ ج أَشْدَاقُ وَشُدُوقُ۔
الأَشْدِقُ: زبان آور بلیغ۔
الشَّدِيقُ: مِنَ الوَادِي: کنارہ۔ ج شُدِيقُ۔
الشَّدِيقُ وَالشَّدِاقِمُ: چوڑے چوڑے والا۔
شير۔
الشَّدِيَاقُ: عِنْدَ النَّصَارَى: کابن سے ایک
درجہ کم والا پادری۔ ج شَدَائِقَهُ (دخیل)
الشَّادُ كَوْنَةً: بستر۔ مغنیہ (جدید)
الشُّودُ كَانُ: ہتھیار ہتھیار کا سامان۔

شَدْنُ (ن) شُدُونًا: الطَّبِيُّ: قوی ہونا اور
ماں سے بے نیاز ہونا (تمام کھر دار اور سم
والوں کے بچوں کے لئے مستعمل ہے۔)
أَشْدَنْتُ: الطَّبِيَّةُ: قوی بچے والی ہونا۔
صفت (مُشْدِنٌ) ج مَشَادِنٌ وَمَشَادِينٌ۔
الشَّدْنُ: ایک پودہ ہے جس کا پھول چھیلی
کے مانند ہوتا ہے۔
الشَّادِنُ: فا۔ جب مطلق بولا جائے تو ہرن کا
بچہ مراد ہوتا ہے۔
شُدَّةُ (ف) شُدْهًا: الرَّاسُ: سر کھلنا۔
(شُدَّةٌ وَأَشْدَةٌ) الرَّجُلُ: دہشت میں
ڈالنا۔
شُدَّةٌ: مد ہوش ہونا۔
إِنشُدَّةٌ وَأَشْدَةٌ: تہمت ہونا۔
الشُّدَاهُ وَالشُّدَّةُ وَالشُّدَّةُ وَالشُّدَّةُ:
حیرت۔ دہشت۔
المَشَادِهُ: مشاغل۔ حیران رہے خود کر
دینے والے معاملات۔
شُدَايشُدُو شُدُونًا: الرَّجُلُ: گا کر شعر پڑھنا
..... الإِبِلُ: حدی گا کر ہانکنا..... الشُّعْرُ: گانا
اور سر نکالنا..... مِنَ الْعِلْمِ شِدْنًا: کچھ حاصل
کرنا۔ صفت (شَادٍ) ج شُدَاةٌ وَشَادُونُ۔
شُدَاهُ فُلَانًا أَوْ بِفُلَانٍ: تشبیہ دینا۔ شُدَا
شُدُونَةً: وہ اس کی چال چلا۔
أَشْدَى إِشْدَاءً: گانے میں ماہر ہونا۔
الشُّدَا: بقیہ قوت۔ گرمی۔ کھلی۔ مِنَ الشُّيْ
: کسی چیز کی حد۔ کنارہ۔ کہا جاتا ہے "أَخَذَ
مِنْهُ شُدَا" اس نے اس میں سے تھوڑا سا لیا۔
"وَلَمْ يَنْقُ مِنَ الْمَرِيضِ إِلَّا شُدَا" جبکہ
قریب الموت ہو جائے۔
الشُّدُو: مفتح۔ بہت میں سے تھوڑا سا لیا
جاتا ہے "أَخَذُوا شُدُونًا مِنْ مَالِهِ" انہوں
نے اس کے بہت سے مال میں سے تھوڑا
سالا۔
الشَّادُ: چڑاسی۔ (جدید)
شُدُّ (ن ض) شُدًّا وَشُدُونًا: عین
الجَمُهورِ أَوِ الْجَمَاعَةِ: علیحدہ ہونا۔ اکیلا

ہونا..... الْقَوْلُ: مخالف قیاس ہونا۔ عین
الأَصُولُ: مخالف قاعدہ ہونا۔ صفت (شَادٌ)
ج شُدَاذٌ وَشَوَاذٌ: مَوْنِثُ شَادَةٌ: ج شَوَاذٌ
وَالشُّدَاذُ مِنَ النَّاسِ: تھوڑے لوگ اور اسی
سے ہے "جَاءَ وَأَشْدَاذًا" یعنی تھوڑے لوگ
آئے۔ وہ لوگ جو کسی قوم میں ہوں اور ان
کے قبیلہ سے نہ ہوں۔
شُدَاذًا الْآفَاقُ: مسافر لوگ۔
شُدَّةٌ (ن) شُدًّا وَشُدَّةً: شاد کرنا۔
أَشْدُ: نادربات کہنا..... الشُّيْ: جدا کرنا۔
شاد کرنا۔
الشُّدَانُ وَالشُّدَانُ: متفرق نکلنا وغیرہ۔
شُدَانُ النَّاسِ: متفرق لوگ۔
شُدْبُ (ن ض) شُدْبًا وَشُدْبًا: اللِحَاءُ:
وَشُدْبُ الشَّجَرِ: درخت کو چھانٹنا.....
الْمَالُ: بکھیرنا۔ شُدْبُ غَنَةٍ: دفع کرنا۔
بٹانا۔ شُدْبُهُ: دھکارنا۔
تَشُدْبُ: بٹانا۔ دور ہونا..... الْقَوْمُ: متفرق
ہونا۔
الشُّدْبُ: درخت کے کٹاؤ۔ متفرق
نکلنا۔ جھلکے۔ سامان خانہ۔ کھائی ہوئی
گھاس کا بقیہ۔ کہا جاتا ہے "فِي الأَرْضِ
شُدْبٌ مِنَ الْكَلْبَاءِ" و مَالَهُ إِلَّا شُدْبٌ مِنَ
العَسْكَرِ" ہر ایک بقیہ کے معنی میں ہے۔ ج
أَشْدَابُ۔
الشُّدْبَةُ: درخت کی کاٹی ہوئی ٹہنی۔
الشَّادِبُ: فا۔ وطن سے دور۔
الشُّوَدْبُ: مِنَ الرَّجَالِ: لمبا خوبصورت قد
والا۔ ہر چیز کا عمدہ حصہ۔
المِشْدَبُ: شاخ تراشی کا آلہ۔
المُشْدَبُ: مفتح۔ کانتوں سے صاف کیا ہوا
تند۔ فَرَسٌ مُشْدَبٌ: لمبا گھوڑا جس میں
گوشت زیادہ نہ ہو۔
شُدْرُ: النَّظْمُ: مہر لگا کر جدا کرنا۔ کہا جاتا
ہے "شُدْرُ كَلَامَةٍ بِشُعْرٍ" کلام میں شعر
داخل کرنا..... بِفُلَانٍ: بدنام کرنا۔

تَشْتَرُ: برائی یا مقابلہ کے لئے تیار ہونا۔
غضبناک ہونا۔ سبک ہونا اور کام کے لئے
چست ہونا..... ہ..... دھکانا..... الْقَوْمُ:
متفرق ہونا اور اپنی اپنی راہ لینا..... القوم
فی الحرب: حد سے گزرتا۔

التَشْدُ: سونے کا ٹکڑا جو کان سے نکالا
جائے۔ مہرہ جس سے لڑی میں موتیوں کو جدا
کیا جائے۔ چھوٹے موتی۔ واحد
(التَشْدَةُ) ج شَدْرَات و شُدُور: کہا جاتا
ہے "تَفْرَقُوا شَدْرَ مَدْرٍ وَ شَدْرَ مَدْرٍ" وہ
سب بکھر گئے اور ہر ایک نے اپنی راہ لی۔

الشُّوْذَرُ: چادر۔ بے آستین کی قمیص۔ زَجَلٌ
(شُدُوزَة) صاحب غیرت مرد۔
المُتَشَدِّرُ: شیر۔

شَدَفَ (ن) شَدَفًا کہا جاتا ہے
"مَا شَدَفْتُ مِنْهُ شَيْئًا" میں نے اس سے کچھ
حاصل نہیں کیا (اس کا استعمال صرف نئی کے
ساتھ ہی ہوتا ہے)۔
شُوذِقَ شُوذِقَةً: انگلیوں سے پکڑنا۔
الشُّوْذِقُ: بگلن۔

الشُّيْذِقُ الشُّيْذِقَانُ وَالشُّوْذَائِقُ: بھکاریا
شاہین۔

الشُّذَامُ: بچھو اور بھڑکاؤ تک۔ نمک۔
الشُّيْذَمَانُ: بھیریا۔
الشُّيْذَمَانَةُ: تیز رفتار جوان اونٹنی۔

شَدًا يَشْدُوَانِ شُدُوًا: منگ لگانا..... بِالْخَيْرِ
معلوم کر کے سمجھانا..... وَأَشْدَى: فُلَانًا:
تکلیف دینا و اشدّاهُ عَنْهُ: دور کرنا بنانا۔
شَدَى تَشْدِيَةً بِالْخَيْرِ: معلوم کر کے
سمجھانا۔

الشُّدُوُ: مصل۔ منگ۔ منگ کی خوشبو۔
الشُّدَا: بونکی تیزی۔ تکلیف۔ برائی۔ نمک۔
سجھائی۔ سواکوں کے درخت کا نام۔ لکڑی
کے ٹکڑے۔ کھسی۔ ایک قسم کی شئی۔ بھوک کی
تیزی۔

الشُّدَاةُ: شُدَا: کا واحد۔ ج شَدُوَات:
قوت کا لقب۔ پرانی چیز۔

شُرٌّ (ش ن س) كَشْرًا وَشَرَارَةً وَشُرْرًا:
شریر ہونا۔ شرارت کرنا۔ صفت مذکر (شُرٌّ):
صفت مؤنث (شُرَّة) ج أَشْخُرُ وَشُرَارٌ
وَأَشْرَاءُ۔

شُرُونٌ (ش ر ن) شُرًا: اللَّحْمُ أَوْ الْفَوْبُ: گوشت یا
کپڑے کو خشک ہونے کے لئے دھوپ میں
ڈالنا..... فُلَانًا: برائی کی طرف نسبت کرنا۔
لوگوں میں مشہور کرنا۔ دھکانا۔ أَشْرُرُ
الشُّي: ظاہر کرنا۔

شَارَةٌ: بھگڑا کرنا۔
تَشَارَاتُ تَشَارًا: باہم بھگڑنا۔

الشُّرُّ: مصل۔ برائی۔ ج شُرُوزٌ: یہ ہر قسم کی
برائی اور خطا کے لئے اسم جامع ہے۔ کہا جاتا
ہے "هُوَ شُرُّ النَّاسِ وَهُمْ شِرَارٌ وَأَشْرَارٌ
وَأَشْرَاءُ وَهِيَ شُرَّةٌ أَوْ شُرَى النَّسَاءِ" وہ
لوگوں میں بہت بڑا ہے اور اصل اس کی
(أَشْرٌ) ہے۔ اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ ہمزہ کو
کثرت استعمال کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا
ہے جیسے خیر میں۔

الشُّرَّةُ: برائی۔ تیزی۔ چستی۔ غضب۔
سبکی۔ لاج شُرَّةُ الشَّبَابِ: جوانی کی چستی۔
الشُّرَّةُ: مکروہ۔ کہا جاتا ہے "مَا فُلْتُ
ذَلِكَ لِشُرَّتِكَ" میں نے تیرے مکروہ
سمجھنے کی وجہ سے اس کو نہیں کیا۔

الشُّرُوزُ وَالشُّرَارُ: آگ کی چنگاری جو
اڑے۔ واحد (شُرُوزَةٌ وَشُرَارَةٌ)
الشُّرَيْرُ: شرارت کرنے والا۔ ج أَشْرَارٌ
وَأَشْرَاءُ مَوْتٌ شُرَيْرَةٌ. الشُّرَيْرُ: سمندر کا
کنارہ۔ ج أَشِيرَةٌ۔

الشُّرَيْرِيُّ: بہت شرارت کرنے والا۔ شیطان کا
لقب۔ ج شُرَيْرِيُونَ۔

الإشْرَارَةُ: بیرو وغیرہ خشک کرنے کے لئے
چٹائی۔ اونٹوں کا بزار پوڑ۔ خشک گوشت کا
ٹکڑا۔ ج أَشَارِيوُ۔

الشُّرَيْرِيَّةُ: بڑی سوئی۔
الشُّرَانُ: بھنگا۔ چھری کا نام ایک کپڑا جو
انسان کے منہ کے سامنے اڑتا ہے اور کاشا

نہیں۔ واحد (شُرَانَةٌ)

شُرْبٌ (س) شُرْبًا وَشُرْبًا وَشُرْبًا وَشُرْبًا
وَتَشْرَابًا. المَاءُ: پینا۔ گھونٹ لینا۔ سیراب
ہونا۔ شُرْبُ السُّبُلِ الدَّقِيقِ: کتنا یہ ہے غلہ
کی تیاری سے اور کہا جاتا ہے "أَكَلْ عَلَيْهِ
الدَّهْرُ وَشُرْبٌ" یعنی ہلاک ہو گیا و "أَكَلْ
فُلَانٌ مَالِي وَشُرْبَةٌ" یعنی ختم کر دیا۔

شُرْبٌ (س) شُرْبًا: پینا۔ پینا سے یا
سیراب اونٹوں والا ہونا۔ (ضد) شُرْبٌ
بہ: کسی پر جھوٹ بولنا۔

شُرْبٌ (ن) شُرْبًا. الكلامُ: سمجھنا۔
شُرْبَةٌ: پانی پلانا۔ شُرْبُ القُرْبَةِ: نئی منگ
میں مٹی اور پانی ملنا تاکہ پانی خوشگوار رہے
..... قَضْبُ الزَّرْعِ: بھتی کے ڈھنسل کا سیراب
ہونا..... السُّبُلُ الدَّقِيقُ: خوشہ کے دانوں
میں گودا بیٹھنا۔

أَشْرَبَةٌ: پلانا۔ أَشْرَبَ الزَّجَلُ: پینا سا ہونا۔
پینا سے یا سیراب اونٹوں والا ہونا۔ (ضد)

السُّوْنُ: گہرا رنگنا..... السُّوْبُ حُمْرَةٌ:
کپڑے کے رنگ میں سرخی کو ملانا..... بہ:
کسی پر جھوٹ بولنا۔ کہا جاتا ہے "أَشْرَبْتَنِي
مَالِكُ أَشْرَبٌ" اس نے میرے متعلق ایسی چیز
کا دعویٰ کیا جس کو میں نے نہیں کیا..... الإِبِلُ
باندھنا..... وَأَشْرَبَ حَبَّ فُلَانٍ" اس کے
دل میں فلاں کی محبت جاگزیں ہوگئی۔

شَارِبَةٌ مُشَارِبَةٌ وَشِرَابًا: ساتھ پینا۔
تَشَارِبًا: ایک دوسرے کے ساتھ پینا۔
تَشْرَبُ. السُّوْبُ العُرْقُ: جذب کرنا۔
چوستا۔

إِسْتَشْرَبَ: فُونُهُ: تیز اور گہرا ہونا۔
إِشْرَابٌ. لِلسُّيِّئِ وَالْبِيْهِ: گردن اٹھا کر
دیکھنا۔ اسم (الشُّرَابِيَّةُ) جیسے إِطْمَانًا: سے
طُمَأْنِينَةٌ۔

الشُّرْبُ: مصل۔ شَارِبٌ: اسم فاعل کی جمع
ہے۔

الشُّرْبُ: مصل۔ پینے کا پانی۔ پانی کا حصہ۔
گھاٹ۔ پینے کا وقت۔ ج أَشْرَابُ۔

الشَّرْبَةُ: شَرَبٌ: كاسم مرة - جو ایک مرتبہ پیا جاسکے۔

الشَّرْبَةُ: چہرے کی سرخی - کہا جاتا ہے "ہی وَجْهَهُ شَرْبَةٌ مِنْ حُمْرَةِ" اس کے چہرہ میں سرخی ہے۔ سیراب ہونے کی مقدار پانی۔

الشَّرْبَةُ: بہت پینا۔ پیاس۔ گرمی کی شدت۔ شَرَبٌ وَشَرِبَاتٌ.

مَاءٌ (شَرْوَبٌ وَشَرْيَبٌ): پینے کے لائق پانی۔ الشَّرْيَبُ: بہت پینے والا۔ پینے کا

سامی جو شخص تمہارے ساتھ مل کر پانی لائے یا تمہارے ساتھ پلایا جائے۔ اونٹوں کو گھاٹ پر لانے میں سامی۔

الشَّرْبَةُ: بے درخت کے گھاس والی زمین۔ وادی کا کنارہ۔ طریقہ۔ کہا جاتا ہے "فَأَزَالَ

فُلَانٌ عَلَى شَرْبَةٍ وَاجِدَةً" فلاں ہمیشہ ایک طریقہ پر رہا۔

الشَّرَابُ: ہر ایک پینے کی چیز۔ جَ اشْرَبَةُ. الشَّرْبَةُ وَالشَّرْوَبُ وَالشَّرَابُ

وَالشَّرْيَبُ: بہت پینے والا۔ الشَّرَابَةُ: شراب کا مؤنث۔

عِنْدَ الْمُؤَلَّدِينَ: ترکی ٹوپی وغیرہ کا پھندا۔ جَ شَرَابِيْبٌ. شَرَابَةُ الزَّاعِي: ایک پودہ کا

نام۔ الشَّرَابُ (فَا) جَ شَرْبٌ (جیسے زَاكِبٌ: جَمْرَكِبٌ) جانوروں کی کمزوری۔ شَرَابٌ الرَّجُلُ: موچھ دونوں جانب کے اعتبار سے

مشبیلا تے ہیں اور "شَرَابُ الرَّجُلِ" کہتے ہیں اور اطراف و اجزاء کے اعتبار سے جمع

"شَرَابُ الرَّجُلِ" بولتے ہیں۔ الشَّرَابُ: گردن کی رگیں۔ گردن میں

پانی گزرنے کی جگہیں۔ الشَّرَابَةُ: الشَّرَابُ: کامؤنث۔ جَ شَرَابَاتٌ وَشَرَابِيْبٌ: دریا کے کنارے رہنے

والی قوم۔ الشَّرْوَبُ: پانی پینے والے۔ الشَّرَابِيُّ: منقہ۔ پختی۔

الشَّرْبُ: پانی پینے کی جگہ اور اب

خوامش نفس اور میلان کے معنی میں مستعمل ہے۔ جیسے "وَأَفَقَ الْأَمْرُ مَشْرَبَةً" معاملہ اس کی خواہش کے مطابق ہو گیا۔ جَ مَشْرَابٌ.

المَشْرَبَةُ وَالْمَشْرَبَةُ: نرم زمین جو ہمیشہ سرسبز رہے پینے پلانے کا کرہ پینے کی جگہ۔

جَ مَشْرَابٌ: کہا جاتا ہے "طَعَامٌ ذُو مَشْرَبَةٍ" پانی پلانے والا کھانا یعنی جو شخص اسے کھائے پانی زیادہ ہے۔

المَشْرَبَةُ: پانی پینے کا برتن۔ جَ مَشْرَابٌ. المَشْرُوْبُ: مفتح۔ ہر وہ چیز جو پئی جائے۔

الشَّرَابِيْبُ: سخت پھیلی والا شیر الشَّرْبَاخُ: پڑ مردہ سانپ کی پھتری۔

الشَّرْبِيْبُ: چھتھرا۔ شَرْبِقٌ. النَّوْبُ: کھلے کھلے کرنا۔

الشَّرْبِيْبُ: سردی کا برتن اور ایک درخت کا نام جس سے عمدہ قطران نکلتا ہے۔

شَرْبَتٌ (س) شَرْبًا وَأَشْرَبَتْ. يَذُو: ہاتھ کا سردی کی وجہ سے سخت ہو کر پھٹنا۔

شَرْبَةُ الرَّجُلِ: سردی کی وجہ سے سخت ہو کر پھٹنے ہوئے ہاتھ والا ہونا۔ صفت

(شَرْبٌ)..... النَّعْلُ: جوتے کا پھٹنا۔ الشَّرْبُ: ہر پرانی بوسیدہ چیز۔

الشَّرْبُ: مِنَ السُّوْفِ وَالْأَمِيْنَةِ: تیز تلوار و بھالا۔

الشَّرْبَةُ: پرانا جوتا۔ شَرْجٌ (ن) شَرْجًا: جموٹ بولنا.....

الشَّرْبِيُّ: جمع کرنا..... الشَّرَابُ بِالْمَاءِ: طوٹی کرنا..... وَشَرْجٌ وَأَشْرَجٌ) الْحِجَارَةُ: پتھروں کو تہ لگا کر ہمانا..... الْحَرْبِيْبَةُ:

کناروں کو ملا کر باندھنا۔ وَشَرْجٌ النَّوْبُ: کپڑے میں نگر ڈالنا۔ دُور دُور سہنا۔ عوام

سَرْجٌ: کہتے ہیں۔ أَشْرَجٌ ضَلْزَلَةٌ عَلَى كَذَا: کسی بات کو چھپانا۔

شَرْجٌ. اللَّحْمُ: چربی سے مخلوط ہونا۔ شَرْجَةٌ: مشابہ ہونا۔

تَشَرْجٌ. الشَّرْبِيُّ فِي الشَّرْبِيِّ: ایک دوسرے میں داخل ہونا۔

إِنْشَرَجَ: الشَّرْبِيُّ: دو کھڑوں میں پھٹنا۔ الشَّرْجُ: مصل۔ نوع۔ کہا جاتا ہے "هَذَا شَرْجٌ ذَاكٌ" یہ اس کے مصل ہے "هَمَّا شَرْجٌ وَاحِدٌ" وہ دونوں ایک نوع کے ہیں۔

فَرَقٌ۔ کہا جاتا ہے "أَصْبَحُوا فِي الْأَصْبَحِ شَرْجِيْنٌ" وہ کام میں دوفر تے ہو گئے۔

سُكْتَانٌ سے نرم زمین کی طرف پانی بہنے کی جگہ۔ جَ شَرَاجٌ وَشُرُوْجٌ.

الشَّرْبَةُ: سکنستان سے نرم زمین کی طرف پانی بہنے کی جگہ۔ گڑھا جس میں کھال بچھادی

جائے اور پانی ڈالا جائے اور اس میں سے اونٹ پانی نہیں۔

الشَّرْجُ: وادی کی کشادہ جگہ۔ کاج (اس معنی کے لحاظ سے اسم جس ہے) کمان کی پھنچ۔ جَ أَشْرَاجٌ.

الشَّرْبِيُّ: مثیل۔ مانند۔ کھڑی کے دو برابر برابر کے کھڑوں میں سے ایک کھڑا۔ کھڑی

جس سے دو کمانیں بنائی جائیں۔ قَسْوَسٌ شَرْبِيْبٌ: پھٹی ہوئی کمان۔ جَ شَرَايِحٌ.

الشَّرْبِيْبَةُ: درخت خرما کی پتیوں سے بنی ہوئی ٹوکری۔ بَاسُ كَا شَاخِرٌ جُو دَكَانٌ كَالدَّرَاوِزِ پَرَايَا جَائِئٍ۔ پٹھا جس سے تیر کے

پُرَا جُوْزِيْبُ۔ جَ شَرَايِحٌ. سَهْمٌ مَشْرُجٌ: تیر جس میں پر کو جوڑنے والا

پٹھا لگا ہو۔ الشَّرْبِيُّ: تل کا تیل (دخیل)

الشَّرْبِيُّ: اخیل گھوڑا۔ لہی ناگوں والا گھوڑا۔

الشَّرْبِيْبَانُ وَالشَّرْبِيْبَانُ: ایک قسم کا پودہ جس کا پھل بیگن کے مشابہ ہوتا ہے اور اس سے کھال کی دباغت کرتے ہیں۔

الشَّرْبِيُّ: لہا۔ نش۔ تابوت۔ میت۔ لہی اونٹنی۔ چوکور لہی کھڑی۔ تخت۔

المَشْرُجُ: لہا کیا ہوا۔ بغیر کناروں کے ہتھوڑا۔ کہا جاتا ہے "مِطْرَقَةٌ مَشْرُجَةٌ"

یعنی بغیر پہلو کے لہا ہتھوڑا۔ شَرْخٌ. اللَّحْمُ: لہے کھلے

شَرْخٌ (ف) شَرْخًا. اللَّحْمُ: لہے کھلے

درشت۔ جیسے "عَذْبَةُ اللَّيْلِ عَذَابًا شَرًّا" اللہ اس کو سخت عذاب دے۔
 الشَّرْزُ: اسم مرء۔ ہلاکت۔ سختی۔
 الشَّرَّاز: شازر۔ اسم قائل کی جمع۔ لوگوں کو سخت عذاب دینے والے۔
 الشَّرَّاز: وہی جس میں سے پانی نکال دیا گیا ہو۔ ج شواریز و شزاریز۔
 المَشَارِز: قاتل۔ سخت۔ بدخلق۔
 المَشْرُز: مفتح۔ بندھا ہوا۔ ملائے ہوئے کناروں والا۔
 الشَّرْس (س) شَرَسَةٌ و شَرَسَا و شَرَسَا و شَرَسَا: بدخلق ہونا۔ صفت (شرس) و شریس و آشرس شَرَسَتِ المَاشِيَةُ: کائنات دار چھوٹے پودے ہمیشہ کھاتا۔
 شَرَسَةٌ (ن) شَرَسَا: سخت کلامی سے جلاتا۔
 النَّاقَةُ: ناکام سے بچھٹنا۔
 شَارَسَةٌ مَشَارَسَةٌ و شَرَسَا: سخت معاملگی کرنا۔
 تَشَارَسَ القَوْمُ: باہم دشمنی کرنا۔
 شَرَسَتِ (ص) شَرَسَتِ المَاشِيَةُ: خوب چرنا۔
 الشَّرْس و الشَّرْس: مص..... والشَّرْس: کائنات دار چھوٹے پودے۔
 الشَّرَسَاء: اشروس: کامونٹ۔ سفید پتلا بادل۔
 الشَّرْس: مص۔ بدخلق۔ بہت جھگڑا لیا۔ کہا جاتا ہے "لَهُ نَفْسٌ شَرِيْسَةٌ" اس کے اندر بد خلقی اور جھگڑا کرنے کی عادت ہے۔ کہا جاتا ہے "هُوَ زُوْشَرِيْس" وہ بد خلق ہے "وَقَدْ لَانَ شَرِيْسَةٌ" اس کی بد خلقی نرم پڑ گئی۔ شَرِيْسٌ الَاكِلُ: بہت کھانے والا۔
 الشَّرِيْس: شیر۔ ایک بد مزہ پودہ۔
 اَرْضٌ شَرِيْسَةٌ و مُشَرَسَةٌ: بہت کائنات دار چھوٹے پودوں والی زمین۔
 الشَّرِيْس: مص۔ سریس۔
 شَرَسَفٌ شَرَسَفَةٌ: بدخلق ہونا۔
 الشَّرَسُوف: پسیلوں کا وہ کنارہ جو پیٹ کی

ہے۔ و "هُمَا شَرَّخَان" وہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ "شَرَّخَا الرِّحْلُ" کجاوہ کا اگلا و پچھلا حصہ۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ لَا يَزَالُ بَيْنَ شَرَّخِي رَحْلِي" یعنی فلاں ہمیشہ سفر کرتا رہتا ہے۔ اونٹ کی سالانہ پیدائش۔ ج شُرُوْخ۔
 الشَّرَّخُوب: ریڑھ کی ہڈی۔ ج شَرَّخِيْب۔
 شَرْدٌ: (ن) شَرْدًا و شَرُوْدًا و شَرَادًا و شَرَادًا: بدک کر بھاگنا..... عَلِيٌّ اللّٰهُ: اطاعت سے نکل جانا۔ صفت (شارد) ج شَرْدٌ (شَرُوْدٌ): شَرْدٌ مَوْثٌ شَرَادَةٌ ج شَوَارِد و شُرُد. و شَوَارِدُ اللُّغَةِ: نوارد کلمات۔
 شَرْدَةٌ و اَشْرَدَةٌ: دھتکارنا۔ بھگانا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ مَطْرُوْدٌ مَشْرَدٌ" فلاں دھتکارا ہوا بھگایا ہوا ہے جیسے کہا جاتا ہے "طَرِيْدٌ شَرِيْدٌ" شَرْدٌ شَمْلُهُمْ: جماعت متفرق کر دینا۔ شَرْدٌ بِفَلَانٍ: لوگوں کو کسی کے عیب سنانا۔
 تَشَرَّدَ القَوْمُ: جانا۔
 الشَّرِيْد: دھتکار ہونا۔
 الشَّرِيْدَةُ: الشريد: کامونٹ۔ چیز کا یقین۔ ج شَرَايِد۔
 الشَّرِيْدَاخ: موٹا ڈھیلے گوشت والا۔
 شَرْدٌ: الجَمْعُ: متفرق کرنا۔
 الشَّرِيْدَةُ: لوگوں کی قلیل جماعت۔ ج شَرَاذِمٌ و شَرَاذِيْم. ثِيَابٌ شَرَاذِيْمٌ: پچھے ہوئے کپڑے۔
 شَرْرَةٌ (ن) شَرْرًا: کاشا۔ صفت (شَارَرٌ) ج شَرَارٌ۔
 شَرْرَةٌ: کھڑے کھڑے کرنا۔ گالی دینا۔ عذاب دینا۔
 شَارَرٌ: بدخلق ہونا..... الرَّجُلُ: جھگڑا کرنا۔ دشمنی کرنا۔
 اَشْرَرُهُ: سختی و ہلاکت میں ڈالنا۔
 الشَّرْرُ: مص۔ قوت۔ سختی اور سختی و سختی

کاشا..... الشَّرْسَلَةُ: مسئلہ کی بارگاہی کو کھول دینا اور بیان کرنا..... الكَلَامُ: سمجھانا.....
 الشَّيْءُ: کھولنا، کشادہ کرنا۔ حفاظت کرنا.....
 صَدْرُهُ لِلشَّيْءِ و بِالشَّيْءِ: خوش ہونا..... اِلَى الشَّيْءِ: رغبت ظاہر کرنا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ يَشْرَحُ اِلَى الدُّنْيَا" فلاں دنیا کی طرف رغبت ظاہر کرتا ہے۔
 شَرَحَ الشَّيْءُ: کاش کر جدا جدا کرنا اور اسی سے اطباء کے نزدیک "علم التشریح" ہے
 شَرَحَ قِطْعَةَ اللَّحْمِ: پتلا پتلا پارچہ کاشا..... الشَّيْءُ: کھولنا، ظاہر کرنا۔
 اَشْرَحَ. صَدْرُهُ: خوش ہونا۔
 اِنْشَرَخَ: کشادہ ہونا۔ کہا جاتا ہے "شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهُ بِقَبُوْلِ الخَيْرِ فَانْشَرَخَ" اللّٰهُ نے اس کے سینہ کو قبول خیر کے لئے کشادہ کر دیا اور وہ کشادہ ہو گیا۔
 الشَّرْحَةُ: گوشت کا ٹکڑا۔ گوشت کا پارچہ۔
 الشَّرِيْحَةُ و الشَّرِيْحَةُ: گوشت کا ٹکڑا۔
 مَوْنٌ: گوشت کا دراز ٹکڑا۔ ج شَرَايِح۔
 الشَّرَايِحُ: قاتل۔ بیان کرنے والا حکمت کی پردوں سے حفاظت کرنے والا۔
 المَشْرُوْخُ: مفتح۔ سراب۔
 المَشْرُخُ: اندام نہالی۔
 الشَّرْحَبُ: لہبا۔
 اَشْرَحَفَ لَهْ: آمادہ جنگ ہونا۔ جلدی کرنا۔
 الشَّرْحُوْفُ: دشمن پر حملہ کرنے کے لئے آمادہ۔
 الشَّرْحَاقُ: چوڑا پیکال۔ چوڑے پچھے والا۔
 شَرَّخَ (ن) شَرُوْخًا. الصَّبِيْءُ: جوان ہونا۔ صفت (شَارَخ) ج شَرَّخُ (جیسے صاحب کی جمع صَحْبٌ) (شَرَّخَا و شَرُوْخًا) نَابُ البَعِيْرِ دَانَتْ لَكُنَا۔
 الشَّرَّخُ: مص۔ اصل۔ ابتداء جوانی۔ اول امر۔ کسی چیز کا ابھرا ہوا کنارہ۔ مثل ہم عمر۔ کہا جاتا ہے "هُوَ شَرَّخِي" وہ میرا ہم عمر

جانب ہوتا ہے۔ بندھا ہوا اونٹ۔ سختی کی ابتداء۔ مصیبت۔ شَرَّ السُّيْفِ۔

شَرَّ شَرِّ الشَّيْءِ: نکلے نکلے کرنا۔ پھاڑنا۔ کاٹ کر جھاڑنا..... السَّيِّئِينَ: چھری پتھر پر تیز کرنا۔

الْمَاشِيَةِ النَّبَاتِ: جانور کا گھاس چرنا۔ تَشْرُشْرُ: مِنَهُ: بکھرنا۔ متفرق ہونا۔

الشَّرْشُورُ: ایک قسم کی تیل جس میں کانٹے نہیں ہوتے۔ واحد (شَرْشُورَةٌ) شِوَاءٌ شَرْشُورٌ: بھنا ہوا گوشت جس سے چربی نکلتی ہو۔

الشَّرْشُورَةُ: ایک قسم کی گھاس۔ ہر چیز کا کٹرا۔

الشَّرَائِرُ: نفس۔ تمام بدن اور کہا جاتا ہے "الْقَسِي عَلَيْهِ شَرَائِرُهُ" اس نے اس سے محبت کی یہاں تک کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ بوجھ۔ شَرَّ الشَّرِّ الذَّنْبُ: ذم کے اطراف۔

الشَّرْشُورُ: ایک پرندہ جس کو "بُرْتَش" بھی کہتے ہیں۔ ج شَرَّاشِيرٌ۔

شَرَّصَهُ (ن) شَرَّصًا: بھیجتا۔ شَرَّصَهُ وَشَرَّصَهُ: بگلائیہ۔ گالی دینا۔

الشَّرْصُ: مصل۔ سختی۔ درستی۔ الشَّرْصُ: کینچی کے پاس بال گرنے کی جگہ۔

ج شَرَّاصٌ وَشَرَّصَةٌ: الشَّرِيفَةُ: رخسارہ۔ ج شَرَّائِصُ۔

الشَّرْوَاصُ: ہر چیز کا موٹا اور نرم۔ المَشْرَاصُ: نیزے سر کا لوہا جس سے گدھے کے موٹھوں کے درمیان آہستہ

آہستہ ماریں تاکہ تیز چلے۔ المَشْرُوصُ: مفتح۔ کٹا ہوا۔

جَمَلٌ شَرْوَاصٌ: موٹا اور نرم اونٹ۔ شَرَطٌ (ن ض) شَرَطًا: عَلَيْهِ فِي بَيْعٍ وَنَحْوَهُ: شرط لگانا..... الْجِلْدُ: بشر مارنا۔

شَرِطٌ (س) شَرِطًا: کسی بڑے معاملہ میں پھنسا۔

شَرِطٌ الْجِلْدُ: بشر لگانا..... الشَّيْءُ:

باندھنا۔

شَارِطُهُ: باہم شرط لگانا۔

أَشْرَطُ: الإِبِلُ: اونٹ کو فروخت کرنے کے لئے نشان لگا کر جدا کرنا..... إِلَيْهِ رَسُولًا:

جلدی اپنی بھیجتا..... نَفْسَهُ أَوْ مَالَهُ فِي أَهْوٍ: پیش کرنا..... نَفْسَهُ لِكَذَا: تیار کرنا۔ آمادہ ہونا..... بِالشَّيْءِ وَفِيهِ: ہلکا بھجنا اور شرط

لگانا۔ تَشْرَطُ: فِي الْعَمَلِ: اچھی طرح غور کرنا۔ اپنے اوپر غیر ضروری شرطیں لگانا۔

تَشَارَطَا: الْقَوْمُ: ایک دوسرے کے ساتھ شرط لگانا۔ تَشَارَطُوا عَلَيَّ الشَّيْءُ: التَّرَامِ

شرط کرنا۔ إِشْرَطُ: لَهُ كَذَا: شرم لازم کرنا۔ اسْتَشْرَطُ: الْحَالُ: درستی کے بعد خراب ہونا۔

الشَّرْطُ: مصل۔ کسی چیز کا لازم کرنا۔ ج شُرُوطٌ: كَيْفِيَّةٌ: ج شَرَّاطٌ۔

الشَّرْطُ: مصل۔ علامت۔ ہر چیز کا اول ہر چھوٹی نالی۔ ردی مال۔ چھوٹے چھوٹے مال۔ ج اشْرَاطُ: الاَشْرَاطُ: رذیل لوگ۔

شَرِيفٌ لَوْكٌ (ضد) کہا جاتا ہے "هُوَ مِنْ شَرِطِ النَّاسِ وَأَشْرَاطِهِمْ" وہ رذیل یا شریف لوگوں میں سے ہے۔

الشَّرِطَةُ: شرط جو تم لگاؤ۔ فوج کا پہلا دستہ جو میدان جنگ میں آئے۔ شَرِطَةٌ: كَجَلِّ شَيْءٍ:

عمدہ و بہترین (.....) وَالشَّرِطِيُّ: شَرِطُ كَيْ وَاحِدٌ هِيَ: شَرِطُ كَيْ مَعْنَى وَاحِدٍ كَالْعَوَانِ وَانْصَارَ لَوْكٌ أَوْ رَجُلٌ كَوَقَالٍ كَو كَيْتٍ هِيَ: اس وجہ سے کہ وہ ایسی علامت

لگاتے ہیں جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ الشَّرِطُ: فوج کا پہلا دستہ جو میدان جنگ میں حاضر ہو اور موت کے لئے تیار ہو۔

الشَّرِيْطُ: شَرِطٌ: پوست خرما کی بنی ہوئی ردی جس سے تخت وغیرہ کو باندھیں۔ ڈپہ جس میں عورت خوشبو وغیرہ رکھے۔ ج شُرُوطُ.

الشَّرِيْطَةُ: شَرِطٌ: چھٹے ہوئے کان والا۔

اونٹ۔ ج شَرَّابِطٌ۔

أَشْرَطُ: النَّاسُ: رذیل آدمی۔

المَشْرَطُ وَالمَشْرَاطُ وَالمَشْرَطَةُ: بشر ج مَشْرَاطٌ وَمَشَارِيطٌ۔

شَرَعَ (ف) شَرَعًا: لِلْقَوْمِ: قانون بنانا۔ شَرِيْعَةٌ جَارِيَةٌ كَرْنَا..... لَهُمْ الطَّرِيقُ: ظاہر کرنا۔ کہا جاتا ہے "شَرَعَ اللَّهُ لَنَا كَذًا

بشْرَعِهِ" یعنی خدا نے ہمارے لئے ایسا ظاہر کیا..... الزَّجَلُ: حق کو غائب کرنا اور باطل کو مٹانا..... الْبَيْتُ: گھر کا کھلے ہوئے راستہ پر ہونا۔

الْبَابُ إِلَى الطَّرِيقِ: دروازہ کو کھلے ہوئے راستہ کی جانب کرنا..... الْحِجْلُ: رسی کی گرہ

کو کھول کر دونوں کناروں کو کڑے وغیرہ میں ڈالنا۔

الشَّيْءُ: بہت بلند کرنا۔

شَرَعَ (ف) شَرَعًا: شَرُوعًا: فِي الْمَاءِ: پانی میں داخل ہونا یا اوک سے پینا۔

السَّوَادُ: پانی کو منہ لگا کر پینا..... الْمَاشِيَةُ: جانور کو پانی پر لے جانا..... الْأَمْرُ: کام شروع کرنا..... فِي الْأَمْرِ: کام میں مشغول ہونا..... الرِّمَاحُ فَشَرَعَتْ هِيَ:

نیزے کو کسی کی جانب سیدھا کرنا اور سیدھا ہونا۔ (لازمی و متعدی)

الطَّرِيقُ: راستہ ظاہر ہونا..... بَفْلَانٍ: کسی کو پانی پر لے جانا..... فْلَانٌ عَلَيْنَا: قریب ہونا اور جھانکنا۔ شَرَعَ يَضْرِبُ: مارنے لگنا۔

(افعال مقاربہ سے ہے)۔

شَرَعَ وَأَشْرَعَ: الطَّرِيقُ: راستہ ظاہر کرنا۔

..... فِي الْمَاءِ: پانی میں داخل کرنا۔ شَرَعَ الْحِجْلُ: رسی کی گرہ کھولنا۔ شَرَعَ السَّنِيْفَةَ:

کشتی میں بادبان لگانا۔ أَسْرَعَ بَابَهُ إِلَى أَوْ عَلَيَّ الطَّرِيقُ: راستہ کی طرف دروازہ کھولنا۔ أَسْرَعَ عَلَيْهِ الرَّمْحُ: کسی کی جانب نیزہ سیدھا کرنا۔

أَسْرَعَ الشَّيْءُ: بہت بلند کرنا۔

أَسْرَعَ: الشَّرِيْعَةُ: قانون بنانا۔ شَرِيْعَةٌ

شَرِطٌ الْجِلْدُ: بشر لگانا..... الشَّيْءُ:

جاری کرنا۔

الشُّرْعُ: مص۔ اللہ کے مقرر کردہ احکام اور کہا جاتا ہے "شُرْعُكَ مَا بَلَغَكَ الْمَحَلُّ" یعنی تمہارے لئے اتنا تو شہ کافی ہے جو مقدمہ کی جگہ تک پہنچا دے اور یہ اس شخص سے کہتے ہیں جس کو تھوڑے پر قناعت کرنے کے لئے برا بیچنے کرنا ہو (..... الشُّرْعُ وَالشُّرْعُ) مثل۔ برابر۔ کہا جاتا ہے "لِنَاسٍ فِي هَذَا شُرْعٌ وَاجِدُوهُمْ فِي هَذَا شُرْعٍ" یعنی لوگ اس میں برابر ہیں۔ الشُّرْعُ: جو تے کا تسمہ۔

الشُّرْعَةُ وَالشُّرْعَةُ: تانت۔ کہا جاتا ہے "ضَرَبُوا عَلَيَّ الشُّرْعَ" انہوں نے تانت کو بچایا۔ الشُّرْعَةُ: قنطرة پرندہ کے شکار کرنے کا جال۔ شریعت۔ مثل۔ پانی کی طرف راستہ۔ عادت۔ ج شُرْعٌ شُرْعٌ وَشُرَاعٍ. الشُّرْعَةُ: کشتی۔ ج اَشْرَاعٌ. الشُّرُوعُ: بہادر۔ عمدہ کتاب..... مِنَ اللَّيْفِ: درخت خرما کی چھال کے کانٹے جو سخت ہو گئے ہوں۔

الشُّرَيْعَةُ: طریقہ۔ اللہ کے مقرر کئے ہوئے احکام۔ چوکھٹ۔ دریا کے کنارے رہنے والوں کے لئے گھاٹ۔ ج شُرَائِعُ. نَهْرٌ الشُّرَيْعَةُ: دریائے اردن۔

الشُّارِعُ: اسم فاعل۔ مَوْنَتٌ شَارِعَةٌ. ج شُرْعٌ وَشُرُوعٌ وَشَوَارِعُ: کہا جاتا ہے "إِبِلٌ شُرْعٌ وَشَوَارِعٌ" پانی میں داخل ہونے والے اونٹ۔ بَيْتٌ شَارِعٌ: وہ مکان جس کا دروازہ راستہ کی جانب ہو۔ والشُّارِعُ ج شَوَارِعُ: سڑک عام راستہ۔ رِمَاحٌ شَارِعَةٌ وَشَوَارِعُ: کسی کی جانب سیدھے کئے ہوئے نیزے۔ الشُّوَارِعُ مِنَ النَّجُومِ: غروب کے قریب ستارے۔

أَنْفٌ (أَشْرَعُ) لَبَّ بِأَنْسِ وَالِ نَاكٌ الشُّيْرَاعُ: ہر وہ چیز جو بلند اور کھڑی کی جائے۔ بادبان۔ تانت جب تک کہ کمان پر لگی رہے۔ اونٹ کی گردن۔ کہا جاتا ہے

"رُجُلٌ شُرَاعُ الْأَنْفِ" لَبَّ بِأَنْسِ نَاكٌ وَالْأَمْرُدُ ج أَشْرَعَةٌ وَشُرْعٌ. الشُّرَاعَةُ: دلیری۔

الشُّرَاعُ: عمدہ کتاب بیچنے والا۔ الشُّرْعِيُّ: مطابق شریعت۔ الشُّرَاعِيُّ: مِنَ الْإِبِلِ: لمبی گردن والا اونٹ۔

الشُّرَاعِيُّ: مِنَ الرِّوَاخِ: لَبَّ نِزْرَے۔ ایک شخص کی جانب منسوب جس کا نام شرع تھا اور وہ نیزے بنایا کرتا تھا۔

تَنْبِيَةُ الْإِسْتِزَاعِ: توریٹ کا پانچواں باب۔ الْمَشْرُوعُ وَالْمَشْرُوعَةُ وَالْمَشْرُوعَةُ: دریا کے کنارے رہنے والوں کے لئے گھاٹ۔ ج مَشَارِعُ.

الْمَشْرُوعُ: مِنَ الْبُيُوتِ: بلند مکان۔ الْمَشْرُوعُ: سیدھا کیا ہوا۔ جس کو شریعت جائز رکھے۔ وَالْأَمْرُ الْمَشْرُوعُ: وہ کام جس کو تم شروع کرو۔

شُرْعَبُ الْأَدِيمِ: لمبا کاٹنا۔ الشُّرْعَبُ: لمبا۔ الشُّرْعِيُّ: ایک قسم کی چادر۔ لمبا خوبصورت جسم والا۔

الشُّرْعُوبُ: ایک قسم کی گھاس۔ الشُّرْعَافُ: زنگھور کے شگونے کا پوست۔ الشُّرْعُوفُ: ایک قسم کی گھاس۔ الشُّرُوعُ وَالشُّرُوعُ: چھوٹا مینڈک۔

الشُّرْعُوفُ: ایک قسم کی گھاس چھوٹا مینڈک۔ شُرْفَةٌ (ن) شُرْفًا: کسی سے عزت و مرتبہ میں غالب ہونا۔ مَفْتٌ مَفْعُولٌ (مَشْرُوفٌ)..... الْحَائِطُ: دیوار میں کنگرہ بنانا۔

شُرْفٌ (ك) شُرْفًا وَشُرْفًا: دین یا دنیا میں بلند مرتبہ ہونا۔ صاحب عزت ہونا۔ (شُرْفَتِ النَّاقَةِ شُرُوفًا) بوڑھی ہونا۔ شُرْفٌ (م) شُرْفًا: بلند ہونا۔

شُرْفَةٌ: شرافت پر فخر کرنے میں مقابلہ کرنا۔ شَارَفَ الْمَكَانَ: چڑھنا..... الشُّيْ: اوپر

سے جھانکنا۔ قریب ہونا۔ شُرْفَةٌ: تعظیم کرنا۔ بزرگی دینا۔ عزت کرنا۔ شُرْفُ الْبَيْتِ: کنگرہ بنانا..... الْمَكَانُ: چڑھنا۔

أَشْرَفَ الشُّيْ: بلند ہونا۔ سیدھا کھڑا ہونا..... الْمَكَانُ: چڑھنا..... غَلِيَّةٌ: اوپر سے جھانکنا..... لَكِ الشُّيْ: ممکن ہونا۔ قدرت و طاقت میں ہونا..... عَلِيَّ الْمَوْتِ: قریب الموت ہونا..... غَلِيَّةٌ: ڈرنا یا مہربانی کرنا۔

أَشْرَفَتِ الْخَيْلُ: تیز دوڑنا..... نَفْسُهُ عَلِيَّ الشُّيْ: حریص ہونا اور ہلاک ہونا۔ تَشْرَفُ الْبَيْتِ: کنگرے دار ہونا..... الرَّجُلُ: عزت پانا..... بَكْدًا: باعث عزت جاننا..... الْمَكَانُ: چڑھنا..... الشُّيْ: ہاتھوں سے اڑ کر کے کسی چیز کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا..... لِلسُّيْ: جھانکنا..... عَلِيَّ الشُّيْ: اوپر سے جھانکنا۔

تَشْرَفُ الْقَوْمِ: ذی عزت لوگوں کا قتل کیا جانا۔ اِشْتَرَفَ: سیدھا کھڑا ہونا۔ اِسْتَشْرَفَ: سیدھا کھڑا ہونا..... الشُّيْ: ہاتھ کی آڑ کر کے نظر اٹھا کے دیکھنا۔ اِسْتَشْرَفَهُ حَقَّةً: ظلم کرنا۔ حق مار لینا..... الشَّافَةُ: عیوب سے سالم لینے کے لئے دیکھ بھال کرنا۔

الشُّرْفُ: مص۔ عزت و بزرگی۔ شُرَافَتُ..... بلند مکان۔ ناک ج اَشْرَافُ. شُرْفُ الْبُجْيُورِ: کوبان۔ الشُّرْفُ: شریف۔ کہا جاتا ہے "هُوَ شُرْفٌ قَوْمِهِ وَحُزْمُهُمْ" وہ قوم کا شریف ہے۔

الشُّرْفَةُ: خاندانی شرافت۔ الشُّرْفَةُ مِنَ الْقَصْرِ: کنگرہ۔ ج شُرْفٌ وَالشُّرْفَةُ مِنَ الْمَالِ: عمدہ مال اور کہا جاتا ہے "أَعْدَدُوا يَأْرَاقُكُمْ شُرْفَةً" تمہاری ملاقات کو میں اپنے لئے باعث عزت سمجھتا ہوں۔

الشُّرْفَةُ: شُرْفَاتٌ: کا واحد شُرْفَاتٌ ان

شاث یا مربع برجیوں کو کہتے ہیں جو دیوار کے بالائی حصہ میں ہوتی ہیں۔

الشَّارِفُ: فا-عتریب شرف حاصل کرنے والا۔ سَهْمٌ شَارِفٌ: پرانا تیر۔ ذَنْ شَارِفٌ: پرانی شراب کا مٹکا۔ مِّنَ السُّوقِ: بوڑھی اُونٹی۔ ج شَرْفٌ وَشَرْفٌ وَشَرْوَفٌ وَشُرْفٌ.

الشَّارِفَةُ: شَارِفٌ کا مؤنث۔ بوڑھی اُونٹی۔ ج شَارِفَاتٌ وَشَوَارِفٌ.

الشُّوَارِفُ: شراب کے برتن۔ مٹکا وغیرہ۔ الشَّارُؤُفُ: جھاڑو۔

الشَّرِيفُ: شرف و عزت والا۔ ج شُرَفَاءٌ وَأَشْرَافٌ: مؤنث شَرِيفَةٌ. ج شَرَائِفٌ وَشَرِيفَاتٌ خَارِجٌ شَرِيفٌ: بلند موٹھا۔

أَشْرَافُ الْإِنْسَانِ: انسان کے ناک 'کان'۔ الأَشْرَفُ: اسم تفضیل۔ چگا ڈڑ۔ قصر

أَشْرَفٌ: مؤنث شُرَفَاءٌ. ج شُرْفٌ: نگرہ دار یا برجی والا محل۔ ج شُرْفٌ: بلند

کاندھے والا مرد۔ مَنَكِبٌ أَشْرَفٌ: بلند موٹھا۔

الشَّرَفَاءُ: أَشْرَفٌ کا مؤنث۔ مِّنَ الْأَذَانِ: لمبا کان۔

المُشْرِفُ: مِّنَ الْأَمَّاكِنِ: بلند جگہ۔ المُشْرِفُ: جھانکنے کی جگہ۔ ج مُشَارِفٌ.

مُشَارِفُ الْأَرْضِ: زمین کی بلند جگہیں۔ المُشْرِفِيُّ: عرب کے ان دیہات کی طرف

منسوب ہیں جو مُشَارِفُ الشَّامِ کے نام سے موسوم ہیں اور اسی سے ہے "الشُّيُوفُ المُشْرِفِيَّةُ" اور بقول بعض الشُّيُوفُ

المُشْرِفِيَّةُ" یمن کے ایک علاقہ کی طرف منسوب ہیں۔ مُشَارِفُ الشَّامِ کی طرف

نہیں۔ المُسْتَشْرِفُ: بلند۔

شَرْقٌ (ن) شَرْقًا: بکری کے کان کو لمبائی میں پیرنا۔ صفت مفعولی (شُرْقَاءٌ)۔

الشَّمْرُ: پھل توڑنا۔ شَرْقَتْ (ن) شَرْقًا وَشُرُوقًا: الشَّمْسُ:

آفتاب طلوع ہونا۔۔۔۔۔ النَّخْلُ: درخت خرما پر چھوڑ کا گدر ہونا۔

شَرْقٌ (س) شَرْقًا: بِرِيقِهِ: اچھو لگنا۔ شَرْقَتْ عَيْنُهُ: آنکھ کا سرخ ہونا۔ قُرُونُهُ: شرم کی وجہ سے سرخ ہونا۔

الْمَجْرُحُ بِالذَّمِّ: زخموں کا خون سے بھرنا۔ الدَّمُ فِي عَيْنِهِ: آنکھ میں خون ظاہر ہونا۔

المَوْضِعُ بِأَهْلِهِ: جگہ کا لوگوں سے بھر کر تنگ ہونا۔

الشَّمْسُ: آفتاب کا ڈوبنے کے قریب ہونا۔ الشَّيْءُ: مخلوط ہونا۔ الأرض: پانی

جاری ہونے کا ناقابل ہونا۔ الشَّاةُ: لمبائی میں چرے ہوئے کان والی ہونا۔

شَرْقٌ: مشرق کی طرف متوجہ ہونا۔ جھکدار خولے صورت چہرے والا ہونا۔

السَّلْحَمُ: گوشت کے کٹڑے کرنا اور دھوپ میں خشک کرنا۔ البِنَاءُ: چونے وغیرہ سے لپٹا

۔ الشَّيْءُ بِالسَّعْفِ عَفْرَانٌ: کسی چیز کو زعفران سے رنگنا۔

أَشْرَقَتْ: الشَّمْسُ: آفتاب کا طلوع ہونا۔ جھکنا۔ أَشْرَقَ وَجْهُهُ: جھکدار ہونا

۔ السَّمْكَانُ: سورج کی چمک سے روشن ہونا۔

الرَّجُلُ: طلوع آفتاب کے وقت داخل ہونا۔ أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ السَّمْكَانَ: روشن کرنا۔ النَّوْبُ فِي الصَّبْحِ: گہرا رنگنا۔ أَشْرَقَهُ بِرِيقِهِ: اچھو لگوانا۔ النَّخْلُ: درخت خرما پر

چھوڑ کا گدر ہونا۔ تَشْرَقُ: دھوپ میں بیٹھنا۔ دھوپ کھانا۔

إِنْشَرَقَتْ: القَوْسُ: کمان کا پھٹنا۔ إِشْرُوزَقَتْ: العَيْنُ بِالدَّمْعِ: آنسوؤں سے ڈبڈبانا۔ سرخ ہونا۔

الشَّرْقُ: مصل۔ آفتاب طلوع ہونے کی جگہ۔ بچھن اور اسی سے ہے "مَسَادَخَلٌ شَرْقٌ فِصْمِي شَيْءٌ" میرے منہ کے شکاف میں کچھ

داخل نہیں ہوا۔ ج أَنْشَرَقَ (.....) وَالشَّرْقُ: روشنی جو دروازے کی دراڑ سے داخل ہو۔

الشَّرْقُ: مصل۔ آفتاب۔

الشَّرْقَةُ: شَرْقٌ: کا اسم مرثیہ۔ تم کہتے ہو "أَخَذْتُهُ شَرْقَةً كَمَاذَ يَمُوتُ مِنْهَا" اس کو اچھو لگ گیا جس سے وہ مرنے کے قریب ہو

گیا۔ جاڑے کے زمانہ میں دھوپ میں بیٹھنے کی جگہ (.....) وَالشَّرِيقَةُ: آفتاب جبکہ طلوع ہو۔

الشَّرِيقُ: آفتاب جبکہ طلوع ہو۔ خولے صورت لڑکا۔ ج شَرْقٌ.

التَّشْرِيقُ: مصل۔ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ: عید الاضحیٰ کے بعد تین دن۔ اس لئے کہ ان دنوں میں

قربانی کا گوشت خشک کیا جاتا ہے۔ التَّشْرِيقُ: عید کی نماز اس لئے کہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھی جاتی ہے۔

الشَّارِقُ: فا۔ آفتاب بوقت طلوع۔ کہتے ہیں "لَا أَكَلَمَكَ مَسَادَرٌ شَارِقٌ" میں تم سے گفتگو نہیں کروں گا جب تک آفتاب طلوع ہو اور کبھی آفتاب کے علاوہ ستاروں پر بھی

اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ پہاڑ وغیرہ کی شرقی جانب۔ ج شَوْقٌ.

الشَّارُوقُ: چونہ راکھ ملا ہوا۔

المَشْرِقُ وَالمَشْرِقُ وَالمَشْرِقُ: طلوع آفتاب کی جگہ یا جہت۔ ج مَشَارِقُ.

المَشْرِقَةُ وَالمَشْرِقَةُ وَالمَشْرِقَةُ: والمِشْرَاقُ وَالمِشْرِاقُ: جاڑے کے زمانہ میں دھوپ میں بیٹھنے کی جگہ۔ مِشْرِيقٌ

البَسَابُ: دروازے کی دراڑ جس میں طلوع آفتاب کے وقت روشنی پڑے۔

المِشْرَاقُ: وہ شخص جس کی عادت ہو کہ دوسرے کو اچھو لگنے میں مبتلا کر دے۔

المُشْرِقُ: مفع۔ چونہ راکھ سے پلستر کیا ہوا۔

الشَّرْقَرِيُّ وَالشَّرْقَرِيُّ وَالشَّرْقَرِيُّ: والشَّقِرَاقُ: ایک چھوٹا پرندہ جس کو "أَخِيلٌ" بھی کہتے ہیں اور عوام اس کو "شَقْرَقٌ" کہتے

ہیں۔ شَرْكَتٌ (س) شَرْكًَا: النَعْلُ: تسمہ ٹوٹنا۔

شَرْكََةٌ (س) شَرْكًَا وَشَرْكًَا وَشَرْكََةٌ

<p>الشَّرَائِقُ: سائپ کی کینچی جس کو چھوڑ دے۔ والشَّرَائِقُ عِنْدَ الْمُؤَلَّدِينَ: ریشم کے کیڑے کا کوپا واحد (شَرْفَقَةٌ) اس کو "فَيْلَجٌ" بھی کہتے ہیں جس کا واحد "فَيْلَجَةٌ" ہے۔ نیز "صَلَجٌ" کہتے ہیں جس کا واحد "صَلَجَةٌ" ہے۔</p>	<p>الْأَشْيُرُ اِكْبِي: اشتراکیت کو ماننے والا۔ الْأَشْيُرُ اِكْبِيَّةٌ: وہ نظریہ جس میں معاشرہ کے وسائل آمدن مشترک ہوں اور اس کو ان پر خرچہ کیا جائے ان سے کام لیا جائے اور خرچ دیا جائے۔ یعنی آمدن کا حق ملکیت یا وراثت یا نکل نہ ہوگا۔</p>	<p>وَشَرِكَةٌ: شریک ہونا۔ شُرْكٌ. النَعْلُ: جوتہ میں تسمہ لگانا۔ أَشْرُكَةٌ: فی اشْرہ: کام میں شریک بنانا۔ أَشْرُكٌ بِاللَّهِ: شریک ٹھہرانا۔ شُرْكٌ كَرْمًا: صفت (مُشْرِكٌ وَمُشْرِكَةٌ) اور اسم (الشُرْكُ) النَعْلُ: جوتہ میں تسمہ لگانا۔</p>
<p>شَرَهٌ (س) شَرَهًا وَشَرَاهَةً. إِلَى الطَّعَامِ وَعَلَيْهِ: بہت حریص ہونا۔ صفت (شَرِهٌ) (شَرَهَانٌ) الشَّرَهَاءُ. مِنَ الْبَيْنِينَ: خشک سال۔ شَرَهْفٌ. الصَّبِيُّ: بچہ کو عمدہ غذا دینا۔ الشَّرَوُّ وَالشَّرْوُ: شہد۔</p>	<p>شَرَمٌ (ض) شَرَمًا. الشَّيْ: پھاڑنا۔ الْاَثْفُ: ناک کا پائسہ کا ٹکڑا..... الشَّرِينَةُ: ٹرید کو کناروں سے کھانا..... لِفْلَانٌ مِنْ مَالِهِ: تھوڑا سا دینا۔</p>	<p>شَارِكَةٌ وَشَارِكًا: باہم شریک ہونا۔ إِشْرَكٌ. الْاَشْرُ: مشتہ ہونا۔ إِشْرُكٌ الْقَوْمِ فِي كَذَا: باہم شریک ہونا۔ الْبِشْرُكُ. شُرْكٌ وَأَشْرُكٌ كَالْاِسْمِ: شریک حصہ اور اسی سے ہے "بَيْعٌ شُرْكٌ" مِنْ دَارِهِ" اس کے گھر کا ایک حصہ بیچا گیا۔ بِجِ اشْرَاكٍ.</p>
<p>الشَّرْوَالُ: سروال میں ایک لخت ہے۔ بمعنی پاجامہ۔ شَرِيٌّ يَشْرِي بِشَرَاءٍ وَبِشْرَى. الشَّيْ: خریدنا "بَيْعًا"..... اللَّحْمُ أَوْ لَشْوَبٌ: دھوپ میں خشک ہونے کے لئے ڈالنا..... يَنْفِيهِ عَنْ قَوْمِهِ: آگے بڑھ کر قوم کی طرف سے لڑنا۔ بادشاہ کے سامنے قوم کی نمائندگی کرنا۔ ه: ٹھٹھا کرنا۔ ٹھٹھان کرنا۔ کہا جاتا ہے "فَعَلَّ بِهِ مَا شَرَاهُ" اس نے اس کے ساتھ وہ فصل کیا جس نے اسے ٹھٹھان کیا..... اللَّئِنُ فَلَانًا: پتی اُچھلنے کی بیماری میں مبتلا ہونا۔</p>	<p>شَرِمٌ (س) شَرِمًا: کٹی ہوئی ناک والا ہونا۔ صفت (أَشْرِمٌ) مَوْتٌ شَرِمَاءُ ج شَرِمٌ. شَرَمَةٌ: پھاڑنا۔ چیرنا۔ کلڑے کلڑے کرنا۔ تَشَرَّمٌ وَانْتَشَرَمٌ: پھٹنا۔ کلڑے کلڑے ہونا۔ شَرِمٌ الصَّيْدُ: شکار کا زخمی ہو کر بھاگنا۔ الشَّارِمُ: قاتل۔ نشانہ کے گوشہ کو چمیدنے والا تیر۔</p>	<p>الشَّرِيحَةُ: مصل۔ شریک کا حصہ۔ دو یا دو سے زائد حصوں کا آپس میں اس طرح ملنا کہ ایک دوسرے سے ممتاز نہ ہوں اور عقد پر بھی بولا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ اختلاط نہ ہو۔ الشَّرِيكُ: جال۔ پھندا۔ جِ شُرْكٌ وَأَشْرَاكٌ: راستہ پر جانوروں کے قدموں کے نشانات۔ واحد (شُرْكَةٌ)</p>
<p>شَرِيٌّ يَشْرِي بِشَرَاءٍ وَبِشْرَى. الشَّيْ: خریدنا "بَيْعًا"..... اللَّحْمُ أَوْ لَشْوَبٌ: دھوپ میں خشک ہونے کے لئے ڈالنا..... يَنْفِيهِ عَنْ قَوْمِهِ: آگے بڑھ کر قوم کی طرف سے لڑنا۔ بادشاہ کے سامنے قوم کی نمائندگی کرنا۔ ه: ٹھٹھا کرنا۔ ٹھٹھان کرنا۔ کہا جاتا ہے "فَعَلَّ بِهِ مَا شَرَاهُ" اس نے اس کے ساتھ وہ فصل کیا جس نے اسے ٹھٹھان کیا..... اللَّئِنُ فَلَانًا: پتی اُچھلنے کی بیماری میں مبتلا ہونا۔</p>	<p>شَرِمٌ (س) شَرِمًا: کٹی ہوئی ناک والا ہونا۔ صفت (أَشْرِمٌ) مَوْتٌ شَرِمَاءُ ج شَرِمٌ. شَرَمَةٌ: پھاڑنا۔ چیرنا۔ کلڑے کلڑے کرنا۔ تَشَرَّمٌ وَانْتَشَرَمٌ: پھٹنا۔ کلڑے کلڑے ہونا۔ شَرِمٌ الصَّيْدُ: شکار کا زخمی ہو کر بھاگنا۔ الشَّارِمُ: قاتل۔ نشانہ کے گوشہ کو چمیدنے والا تیر۔</p>	<p>الشَّرِيحَةُ: مصل۔ شریک کا حصہ۔ دو یا دو سے زائد حصوں کا آپس میں اس طرح ملنا کہ ایک دوسرے سے ممتاز نہ ہوں اور عقد پر بھی بولا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ اختلاط نہ ہو۔ الشَّرِيكُ: جال۔ پھندا۔ جِ شُرْكٌ وَأَشْرَاكٌ: راستہ پر جانوروں کے قدموں کے نشانات۔ واحد (شُرْكَةٌ)</p>
<p>شَرِيٌّ يَشْرِي بِشَرَاءٍ وَبِشْرَى. الشَّيْ: خریدنا "بَيْعًا"..... اللَّحْمُ أَوْ لَشْوَبٌ: دھوپ میں خشک ہونے کے لئے ڈالنا..... يَنْفِيهِ عَنْ قَوْمِهِ: آگے بڑھ کر قوم کی طرف سے لڑنا۔ بادشاہ کے سامنے قوم کی نمائندگی کرنا۔ ه: ٹھٹھا کرنا۔ ٹھٹھان کرنا۔ کہا جاتا ہے "فَعَلَّ بِهِ مَا شَرَاهُ" اس نے اس کے ساتھ وہ فصل کیا جس نے اسے ٹھٹھان کیا..... اللَّئِنُ فَلَانًا: پتی اُچھلنے کی بیماری میں مبتلا ہونا۔</p>	<p>شَرِمٌ (س) شَرِمًا: کٹی ہوئی ناک والا ہونا۔ صفت (أَشْرِمٌ) مَوْتٌ شَرِمَاءُ ج شَرِمٌ. شَرَمَةٌ: پھاڑنا۔ چیرنا۔ کلڑے کلڑے کرنا۔ تَشَرَّمٌ وَانْتَشَرَمٌ: پھٹنا۔ کلڑے کلڑے ہونا۔ شَرِمٌ الصَّيْدُ: شکار کا زخمی ہو کر بھاگنا۔ الشَّارِمُ: قاتل۔ نشانہ کے گوشہ کو چمیدنے والا تیر۔</p>	<p>الشَّرِيحَةُ: مصل۔ شریک کا حصہ۔ دو یا دو سے زائد حصوں کا آپس میں اس طرح ملنا کہ ایک دوسرے سے ممتاز نہ ہوں اور عقد پر بھی بولا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ اختلاط نہ ہو۔ الشَّرِيكُ: جال۔ پھندا۔ جِ شُرْكٌ وَأَشْرَاكٌ: راستہ پر جانوروں کے قدموں کے نشانات۔ واحد (شُرْكَةٌ)</p>
<p>شَرِيٌّ يَشْرِي بِشَرَاءٍ وَبِشْرَى. الشَّيْ: خریدنا "بَيْعًا"..... اللَّحْمُ أَوْ لَشْوَبٌ: دھوپ میں خشک ہونے کے لئے ڈالنا..... يَنْفِيهِ عَنْ قَوْمِهِ: آگے بڑھ کر قوم کی طرف سے لڑنا۔ بادشاہ کے سامنے قوم کی نمائندگی کرنا۔ ه: ٹھٹھا کرنا۔ ٹھٹھان کرنا۔ کہا جاتا ہے "فَعَلَّ بِهِ مَا شَرَاهُ" اس نے اس کے ساتھ وہ فصل کیا جس نے اسے ٹھٹھان کیا..... اللَّئِنُ فَلَانًا: پتی اُچھلنے کی بیماری میں مبتلا ہونا۔</p>	<p>شَرِمٌ (س) شَرِمًا: کٹی ہوئی ناک والا ہونا۔ صفت (أَشْرِمٌ) مَوْتٌ شَرِمَاءُ ج شَرِمٌ. شَرَمَةٌ: پھاڑنا۔ چیرنا۔ کلڑے کلڑے کرنا۔ تَشَرَّمٌ وَانْتَشَرَمٌ: پھٹنا۔ کلڑے کلڑے ہونا۔ شَرِمٌ الصَّيْدُ: شکار کا زخمی ہو کر بھاگنا۔ الشَّارِمُ: قاتل۔ نشانہ کے گوشہ کو چمیدنے والا تیر۔</p>	<p>الشَّرِيحَةُ: مصل۔ شریک کا حصہ۔ دو یا دو سے زائد حصوں کا آپس میں اس طرح ملنا کہ ایک دوسرے سے ممتاز نہ ہوں اور عقد پر بھی بولا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ اختلاط نہ ہو۔ الشَّرِيكُ: جال۔ پھندا۔ جِ شُرْكٌ وَأَشْرَاكٌ: راستہ پر جانوروں کے قدموں کے نشانات۔ واحد (شُرْكَةٌ)</p>
<p>شَرِيٌّ يَشْرِي بِشَرَاءٍ وَبِشْرَى. الشَّيْ: خریدنا "بَيْعًا"..... اللَّحْمُ أَوْ لَشْوَبٌ: دھوپ میں خشک ہونے کے لئے ڈالنا..... يَنْفِيهِ عَنْ قَوْمِهِ: آگے بڑھ کر قوم کی طرف سے لڑنا۔ بادشاہ کے سامنے قوم کی نمائندگی کرنا۔ ه: ٹھٹھا کرنا۔ ٹھٹھان کرنا۔ کہا جاتا ہے "فَعَلَّ بِهِ مَا شَرَاهُ" اس نے اس کے ساتھ وہ فصل کیا جس نے اسے ٹھٹھان کیا..... اللَّئِنُ فَلَانًا: پتی اُچھلنے کی بیماری میں مبتلا ہونا۔</p>	<p>شَرِمٌ (س) شَرِمًا: کٹی ہوئی ناک والا ہونا۔ صفت (أَشْرِمٌ) مَوْتٌ شَرِمَاءُ ج شَرِمٌ. شَرَمَةٌ: پھاڑنا۔ چیرنا۔ کلڑے کلڑے کرنا۔ تَشَرَّمٌ وَانْتَشَرَمٌ: پھٹنا۔ کلڑے کلڑے ہونا۔ شَرِمٌ الصَّيْدُ: شکار کا زخمی ہو کر بھاگنا۔ الشَّارِمُ: قاتل۔ نشانہ کے گوشہ کو چمیدنے والا تیر۔</p>	<p>الشَّرِيحَةُ: مصل۔ شریک کا حصہ۔ دو یا دو سے زائد حصوں کا آپس میں اس طرح ملنا کہ ایک دوسرے سے ممتاز نہ ہوں اور عقد پر بھی بولا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ اختلاط نہ ہو۔ الشَّرِيكُ: جال۔ پھندا۔ جِ شُرْكٌ وَأَشْرَاكٌ: راستہ پر جانوروں کے قدموں کے نشانات۔ واحد (شُرْكَةٌ)</p>
<p>شَرِيٌّ يَشْرِي بِشَرَاءٍ وَبِشْرَى. الشَّيْ: خریدنا "بَيْعًا"..... اللَّحْمُ أَوْ لَشْوَبٌ: دھوپ میں خشک ہونے کے لئے ڈالنا..... يَنْفِيهِ عَنْ قَوْمِهِ: آگے بڑھ کر قوم کی طرف سے لڑنا۔ بادشاہ کے سامنے قوم کی نمائندگی کرنا۔ ه: ٹھٹھا کرنا۔ ٹھٹھان کرنا۔ کہا جاتا ہے "فَعَلَّ بِهِ مَا شَرَاهُ" اس نے اس کے ساتھ وہ فصل کیا جس نے اسے ٹھٹھان کیا..... اللَّئِنُ فَلَانًا: پتی اُچھلنے کی بیماری میں مبتلا ہونا۔</p>	<p>شَرِمٌ (س) شَرِمًا: کٹی ہوئی ناک والا ہونا۔ صفت (أَشْرِمٌ) مَوْتٌ شَرِمَاءُ ج شَرِمٌ. شَرَمَةٌ: پھاڑنا۔ چیرنا۔ کلڑے کلڑے کرنا۔ تَشَرَّمٌ وَانْتَشَرَمٌ: پھٹنا۔ کلڑے کلڑے ہونا۔ شَرِمٌ الصَّيْدُ: شکار کا زخمی ہو کر بھاگنا۔ الشَّارِمُ: قاتل۔ نشانہ کے گوشہ کو چمیدنے والا تیر۔</p>	<p>الشَّرِيحَةُ: مصل۔ شریک کا حصہ۔ دو یا دو سے زائد حصوں کا آپس میں اس طرح ملنا کہ ایک دوسرے سے ممتاز نہ ہوں اور عقد پر بھی بولا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ اختلاط نہ ہو۔ الشَّرِيكُ: جال۔ پھندا۔ جِ شُرْكٌ وَأَشْرَاكٌ: راستہ پر جانوروں کے قدموں کے نشانات۔ واحد (شُرْكَةٌ)</p>
<p>شَرِيٌّ يَشْرِي بِشَرَاءٍ وَبِشْرَى. الشَّيْ: خریدنا "بَيْعًا"..... اللَّحْمُ أَوْ لَشْوَبٌ: دھوپ میں خشک ہونے کے لئے ڈالنا..... يَنْفِيهِ عَنْ قَوْمِهِ: آگے بڑھ کر قوم کی طرف سے لڑنا۔ بادشاہ کے سامنے قوم کی نمائندگی کرنا۔ ه: ٹھٹھا کرنا۔ ٹھٹھان کرنا۔ کہا جاتا ہے "فَعَلَّ بِهِ مَا شَرَاهُ" اس نے اس کے ساتھ وہ فصل کیا جس نے اسے ٹھٹھان کیا..... اللَّئِنُ فَلَانًا: پتی اُچھلنے کی بیماری میں مبتلا ہونا۔</p>	<p>شَرِمٌ (س) شَرِمًا: کٹی ہوئی ناک والا ہونا۔ صفت (أَشْرِمٌ) مَوْتٌ شَرِمَاءُ ج شَرِمٌ. شَرَمَةٌ: پھاڑنا۔ چیرنا۔ کلڑے کلڑے کرنا۔ تَشَرَّمٌ وَانْتَشَرَمٌ: پھٹنا۔ کلڑے کلڑے ہونا۔ شَرِمٌ الصَّيْدُ: شکار کا زخمی ہو کر بھاگنا۔ الشَّارِمُ: قاتل۔ نشانہ کے گوشہ کو چمیدنے والا تیر۔</p>	<p>الشَّرِيحَةُ: مصل۔ شریک کا حصہ۔ دو یا دو سے زائد حصوں کا آپس میں اس طرح ملنا کہ ایک دوسرے سے ممتاز نہ ہوں اور عقد پر بھی بولا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ اختلاط نہ ہو۔ الشَّرِيكُ: جال۔ پھندا۔ جِ شُرْكٌ وَأَشْرَاكٌ: راستہ پر جانوروں کے قدموں کے نشانات۔ واحد (شُرْكَةٌ)</p>

شَارِي مُسَارَاةً وَشِرَاءَ. الرَّجُلُ: خَرِيْدُو
فَرُوخت كَرْنَا۔ جَهْزَا كَرْنَا۔

اِشْتَرَى: خَرِيْدَا۔ بِيْتَا۔
تَشَارَى تَشَارِيَا. الرَّجُلَانِ: بِاِمْمِ غَضِبْنَا ك
هُوْنَا۔

تَشَرَّى تَشَرِيَا: تَمَرَّقُ هُوْنَا۔ خَوَارِجِ مِيْن
سَ هُوْنَا۔

اِسْتَشَرَى اِسْتَشِرَاءً. الْقَوْمُ فِي سَبِيْهِ:
تِيْزِ دُوْرَتَا..... الرَّجُلُ فِي الْاَمْرِ: اِصْرَارُ
كَرْنَا۔ اِسْتَشَرْتُ الْاُمُوْرَ: بِيْزَا وُورِدُوْرُوْرَا هُوْنَا
..... الرَّجُلُ: غَضِبْنَا ك هُوْنَا۔

اِشْرُوْرَى اِشْرِيْرَاءً: مَضْطْرَبُ هُوْنَا۔
الشَّرَى: اِنْدِرَاثُنْ۔ عَرَبُ كَمَا كَرْتَا تَحْتَا
"لِلْفُلَانِ طَعْمَانُ اَزْمِي وَشَرِيْتَا" يَعْنِي فُلَانُ
مِيْتَحَا بِيْحِي هُوْ اُوْر كُوْرُوْرَا بِيْحِي۔ دَرِيختُ خَرْمَا جُوْرِيْجِ
سَ اُوْ كَا هُو۔ وَاَحَدُ (شَرِيْتَا)

الشَّرَاءُ: رِجْ اَشْرِيْتَا وَ(الشَّرَى) خَرِيْدُو
فَرُوخت۔
الشَّرَاءُ: طَرَفُ۔ جَانِبُ۔

الشَّرَى: يَتِي اِجْمَلْتَا كِي بِيَارِي۔ بِهَاژ۔
رَاِسْتَا۔ طَرَفُ۔ جَانِبُ۔ رِجْ اَشْرَاءُ۔ كَمَا كَمَا جَا تَا
هُو "ذَخَلُوْا اَشْرَاءَ الْحَرَمِ" وَهُو لُوْ كُ حَرَمِ
كَا اَطْرَافِ مِيْن دَاخِلْ هُوْنَا۔ الشَّرَى:
فِرَاتِ كِي جَانِبِ شِيْرُوْ كَا رَهْنَا كِي اِيْ كِ
جَكُ جَسْ كُو بِلُوْر مِثَالِ كَا كَمَا كَرْتَا هُو (.....)
وَالشَّرَاءُ: رُوْدِي مَالِ يَاعْمَدَا مَالُ۔ كَمَا كَمَا جَا تَا هُو
"اِبِلْ شَرَاةً" يَعْنِي عَمَدَا اُوْتُ۔

الشَّرَى: مِيْن الشَّيْلِ: بِسِنْدِ يَدَا۔ رَقْمَارِ مِيْن
اِنْتَا كُو بِبِيْحَا هُوَا۔
الشَّرِيْتَا: الشَّرَى: كَا مَوْنُثُ۔ طَرِيْقَةُ۔
طَبِيْعَتُ۔ رُوْشُ۔ وَهُو عُوْرَتُ جُوْ بِيْمِشْ لُوْ كِي
جَنِي۔

الشَّرُوْرَى: مِثَلُ يَبِي لِقَطَا وَاَحَدُ شَتِيْنِ جَمْعِ مَذْ كُر
مَوْنُثِ سَبْ كَا لِنَا سَمْتَلْ هُو۔ كَمَا كَمَا جَا تَا
هُو "هُوَ هِي وَهْمَا وَهْمٌ وَهْنٌ
شَرُوْرَا كُ" يَعْنِي تَهَارَا مِثَلُ هُوْنَا اُوْر كَمَا كَمَا جَا تَا
هُو "اِنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَرُوْرَى نَقِيْرٌ" وَهُو تَهِيْرُ

كِي بَرَابَرِ كِي چِيْزَا كَا مَالُ كُنِيْسُ۔ فَقِيْرِي كَا لِنَا
بِلُوْر مِثَالِ كَا بُوْلَا كَرْتَا هُوْنَا اُوْر تَهِيْرُ اِس
كُرُوْمَا كُو كَهْتَا هُوْنَا جُو كَهْجُوْر كِي كَمَطَلِي مِيْن هُوْنَا
هُو۔

الشَّرِيَانُ: اِيْ كِ دَرِيختُ جَسْ كِي لَكُوْرِي سَ
كَمَا نِ بِنَا تَا هُوْنَا۔ اُجْمَلْتَا وَالِي رُ كُ جَسْ مِيْن
خُوْنِ دُوْرَتَا هُو۔ رِجْ شَرِيَانِيْنُ۔

الشَّرِيَا نَاتُ: جَسْمُ كِي بَارِي كِ رَكِيْسُ۔
الشَّرَى: اِسْمُ قَاعِلُ۔ رِجْ شَرَاةً: زَمَانُ حَالِ
كَا عِلْمَا اِسْ كَلْمَا كُو بِيْحِي طَرِ دِلَالَتِ كَا لِنَا
اِسْتِمَالُ كَرْتَا هُو۔ الشَّرَاةُ: خَوَارِجُ۔

المُشْتَرَى: فَا۔ خَرِيْدَارُ۔ اِيْ كِ سِيَارَا كَا نَامُ۔
اِيْ كِ قَسْمُ كَا بِرِنْدَا۔
شَرِيْفُ: زُوْرُوعُ: كَيْحِيْتُ كَا بُوْمَا هُوْنَا
مَضْرُوْتُوْ كُو كُوْنَا۔

الشَّرِيَا فُ: كَيْحِيْتِي كَا بُوْمَا هُوْنَا پَتَا جُوْمَضْرُ
هُوْنَا۔
شَرُوْرُ (ض) شَرَاةً: بَهْتُ خَشْ كُ هُوْنَا۔ صَفْتُ
(شَرُوْرُ وَشَرِيْنُ)

شَرَبُ (ن) وَشَرَبُ (ك) شَرَبًا وَشَرُبًا:
كَهْرُ دَرَا هُوْنَا يَا لَاغَرُ وَخَشْ كُ هُوْنَا۔ صَفْتُ
(شَرَابُ) كَمَا كَمَا جَا تَا هُو "رَجُلٌ شَا حَبْتُ
شَرَابُ" رَنُ كُ بَدَلَا هُوَا لَاغَرُ وَخَشْ كُ مَرُوْدُ رِجْ
شَرَبُ وَشَوْرَابُ۔

شَرَبُ: الْقَوْمُ: گھوڑے کولاغر کرنا۔ چھریرا
بِنَا تَا۔
تَشَارَبُ: الْقَوْمُ عَلٰى الْمَاءِ وَغَيْرِهِ: اِپَنِي
حَصَا كَا لِنْتَرَبُ هُوْنَا۔ كَمَا كَمَا جَا تَا هُو "هُمُ
مَتَشَارَبُوْنُ" وَهُو لُوْ كُ اِپَنِي حَصَا كَا اِنْتَقَارُ كُر
رَهْ هُوْنَا۔

الشَّرِيْتَا: اِسْمُ مَرَاةٍ۔ كَمَا نِ جُوْنُوْنِيْ هُوْنَا پَرَانِي۔
الشَّرِيْتَا مِيْن الْاَقْنِيْنِ: دِلِي پَتِي گَدِي۔ الشَّرِيْتَا:
مَرُوْتُ: كَمَا كَمَا جَا تَا هُو مَضْطُ شَرِيْتَا اِسْ كِي
فَرُوْتُ كَا مَوْقِعُ نَكَلُ كِيَا۔

الشَّرِيْبُ: كَلُوْرِي جَسْ كِي اِصْلَاحُ اَبِيْحِي نَدَا هُوْنِي
هُو۔ كَمَا نِ جُوْنِيْ هُوْنَا پَرَانِي۔ رِجْ شَرُوْرُبُ۔
الشَّرُوْرُبُ: عَلَامَتُ۔

شَرُوْرُ (ض) شَرُوْرًا. الرَّجُلُ وَالسِّبْ: غَصَا
مِيْن تَرَجِيْحِي نَظَرُ سَا دِيْكِيْنَا..... فُلَانَا: دَا اِيْسُ
بَا اِيْسُ سَا نِيْزَا مَارْنَا۔ نَظَرُ بَدَلَا گَا تَا۔

شَرُوْرُ (ن ض) شَرُوْرًا وَاِسْتَشَرُوْرُ. الْحَبْلُ:
رِيْ بِنَا۔ اِسْتَشَرُوْرُ الْحَبْلُ: رِيْ كَا بَثُ جَا تَا۔
اِسْتَشَرُوْرُ الشَّيْ: بِلِنْدَا كَرْنَا..... الشَّيْ: بِلِنْدَا
هُوْنَا۔

اَشْرُوْرَةُ. اللّٰهُ: اِيْسِيْ مَصِيْبَتِ مِيْن پَهْنَا جَسْ
سَا رَهَانِيْ كَمَا نَدَا هُو۔
تَشَرُّرُ: غَضِبْنَا ك هُوْنَا..... لِبَلْقَسَالِ: آ مَادَا
جَنُ ك هُوْنَا۔

شَارَاةُ مُسَارَاةً: دُشْمَانِيْ كَرْنَا۔
تَشَارُوْرُ الْقَوْمُ: تَرَجِيْحِي نَظَرُ سَا اِيْ كِ دُوْرَا سَا
دِيْكِيْنَا۔

الشَّرُوْرُ: مِصُ۔ خَتِي۔ دُشُوْرِي۔ كَمَا كَمَا جَا تَا هُو
"غَزَلُ شَرُوْرُ" نَا هُوَا رَا كَمَا هُوَا سُوْتُ۔
الشَّرُوْرُ وَالشَّرُوْرَةُ: آ كَلْمَا كِي سَرَفِي۔

الاشْرُوْرُ: سَرَخُ۔ عَيْنُ شَرُوْرَاءُ: غَصَا كِي وَجْهُ
سَا سَرَخُ آ كَلْمَا۔

شَرِيْنُ (س) شَرِيْنَا. الرَّجُلُ: چِسْتُ هُوْنَا۔
تَشَرِيْنُ. الشَّيْ: سَخْتُ هُوْنَا۔ دُشُوْرَا هُوْنَا۔
..... لَهَا فِئِي الْحُصُوْمَةِ: جَهْزَا سَا مِيْن خَتِي
بَرْتَا۔

..... لِلْمَسْفُوْرِ: سَفَرُ كِي تِيَارِي كَرْنَا۔ سَا مَانُ كَرْنَا۔
(..... تَشَرِيْنَا وَتَشَرِيْنَا) الرَّجُلُ: بِبِيْحَا ژَا تَا۔
الشَّافَا: ذِيْعُ كَرْنَا كَا لِنَا تَا۔

الشَّرِيْنُ: چُوْرُوْ غَيْرَا كَهِيْلِنَا كَا مَهْرَا۔
الشَّرِيْنُ وَالشَّرِيْنُ: خَتِي۔ جَانِبُ دُوْرِي۔
زَمِيْنُ كِي خَتِي۔ مِيْن الْعِيْشِ: زَنْدِي كِي خَتِي۔
الشَّرِيْنَةُ: مِيْن النِّسَاءِ: خَتِي عُوْرَتُ۔
الشَّرِيْنُ: چُوْرُوْ غَيْرَا كَهِيْلِنَا كَا مَهْرَا۔
الشَّرُوْرَةُ: خَتِي۔

شَرَا يَشَرُوْرُوْ شَرُوْرًا: بِلِنْدَا هُوْنَا۔
شَسُ (ض) شُسُوْسًا. الشَّيْ: خَشْ كُ هُوْنَا۔
الشَّاسُ: لَاغَرُ ضَعِيْفُ وَخَشْ كُ۔
الشَّاسُ: سَخْتُ زَمِيْنِ جُو اِيْ كِ پَتَرُ كِي طَرِحُ
مَعْلُوْمُ هُو۔ رِجْ شِسْاَسُ وَشُسُوْسُ

و شیبس۔

شَيْب (س) و شَيْب (ک) شَيْبَا
و شَيْبَانَا: خشک و لاغر ہونا۔ صفت
(شایب) ج شَيْب۔

الشَيْب والشَيْبُ. مِنَ الْقَيْبِ: کمان
جس کی لکڑی تپتی ہو۔

الشُّبُوبُ. مِنَ الشُّوْقِ: اُونٹنی جس کا بچہ
سردی میں مر جائے اور پھر دودھ نہ دے۔

شَع (ف) شَعَا و شُعُوْعَا. الْمَنْزِلُ:
دور ہونا۔ صفت (شُعُوْع) ج شُعُعُ

(و شَابِعُ) (..... شُعَا و شُع و اشْع)
النَّعْلُ: جوتے کے لئے تسمہ بنانا۔

اشْعُ. الشَّيْ: دور کرنا۔
شَيْع (س) شَعَا. النَّعْلُ: جوتے کا تسمہ ٹوٹنا

..... الْقَرْصُ: گھوڑے کے تھیہ اور ربا عیہ
دانتوں کے درمیان قاصلہ ہونا۔

..... بہ: دور کرنا۔
الشَّيْعُ: جوتی کا تسمہ کہا جاتا ہے "اُونٹنی

مِنَ الشَّيْعِ" جوتی کے تسمہ سے بھی قریب۔
شَمک زمین۔ کسی جگہ کا کنارہ۔ کہا جاتا ہے

"نَزَلَ بِشَيْعٍ مِنَ الْوَادِي" وہ وادی کے
کنارے پر اُترنا۔ تھوڑا مال۔ زیادہ مال

(مزد) اور کہا جاتا ہے "هُوَ شَيْعٌ مَالٍ" وہ
مال کا انتظام کرنے والا ہے۔ ج اشْشَاعُ.

شَيْف (ن) شَيْفُ (ک) شَيْوْفَا
شَيْسَافَةٌ و شَيْسَافَةٌ: خشک و لاغر ہونا۔ صفت
(شایبف و شیبیف)

الشَّيْفُ: خشک روٹی کی ٹکیہ۔
الشَّيْفُ: کچی کھجور چیر کر خشک کی ہوئی۔

الشَّيْفُ: وہ شخص جو لاغری کی وجہ سے خشک
ہو چلا ہو۔

الشُّوْشِبُ: کچھو۔ جوں۔
شَيْشَتْ (س ض) شُضُوْضًا و شَيْصَاصًا.

النَّاقَةُ: اُونٹنی کا بہت کم دودھ والی ہونا
..... الْمَعِيْشَةُ: تنگ گزارن ہونا..... الرَّجُلُ

: دور ہونا۔ کہا جاتا ہے "مَا أَكْرَى أَيْسَنَ
شَصَّ" میں نہیں جانتا وہ کہاں گیا۔

الشَّصْرُ: بہرن کا بچہ جبکہ قوی ہو جائے اور
حرکت کرنے لگے۔ مؤنث شَصْرَةٌ: ایک
چھوٹا پرندہ۔ ج اشْصَارُ.

الشَّاصِرُ: قال۔ الشَّاصِرُ مِنَ الطَّبَّاءِ: بہرن کا
بچہ جبکہ قوی ہو جائے اور حرکت کرنے لگے۔

مؤنث شَاصِرَةٌ ج شَوَاصِرُ. الشَّاصِرَةُ:
درندوں کے لئے ایک جال۔

الشُّوْصُرُ. مِنَ الطَّبَّاءِ: بہرن کا بچہ جبکہ قوی ہو
جائے اور حرکت کرنے لگے۔

الشَّصِيْرُ: کانٹے کی چھین۔
شَصَا يَنْشُطُوْ شُضُوْا و شَصِي يَنْضِي

شَصِيًا. الْبَصْرُ: نگاہ کا پتھر اچانا
..... السَّحَابُ: بادل کا بلند ہونا..... الْقَرْوَةُ:

مٹک کا خوب اچھی طرح بھر جانا..... الْمَيْثُ
: میت کے ہاتھ بیروں کا اٹھ جانا۔ کہا جاتا

ہے "شَصَابِرٌ جَلِيهٌ" اس نے اپنی ٹانگ
اٹھائی۔

أَشْضِي. بَصْرَةٌ: کئی لگاتا۔ نگاہ اٹھانا۔
الشَّضُوْ: بختی۔ سواک۔

شَطُّ (ض ن) شَطًّا و شَطُوْطًا: دور ہونا۔
فَلَاتًا: دور کرنا۔ ظلم کرنا۔

شَطُّ (ض) شَطَطًا: زیادتی کرنا۔ حق سے
دُور ہو جانا..... عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ وَ حُكْمِهِ: ظلم
کرنا..... فِي سَلْعَتِهِ: حد سے تجاوز کرنا اور

بیش قیمت کرنا۔
أَشَطُّ إِشْطَاطًا و اشْطَطُ اشْطِطَاطًا: زیادتی

کرنا۔ حد سے تجاوز کرنا۔ حق سے دور جا پڑنا
..... عَلَيْهِ: ظلم کرنا۔

شَطَطٌ: زیادتی میں مبالغہ کرنا۔
شَاطِطٌ: زیادتی کرنے میں مقابلہ کرنا۔

الشَّطُّ: بمس۔ دریا یا سمندر کا کنارہ۔ ج
شَطُوْط و شَطْطَانُ: کوبان کی ایک جانب۔ ج
شَطُوْطُ.

الشَّطَّةُ: اسم مرءة۔ جَارِيَةٌ شَطَّةٌ: سڈول
بدن والی لوٹری۔

الشَّطَّةُ و الشَّطَاطَةُ و الشَّطَاطُ و الشَّطَاطُ:
دوری۔ الشَّطَاطُ و الشَّطَاطُ: قد و قامت

شَصَّةُ (ن) شَصًّا و أَشْصَهُ. عَنْ كَذَا: مَنَعَ
کرنا۔ دور کرنا۔ ہٹانا۔ أَشْصَ الرَّجُلُ: دور

چلا جانا۔ أَشْصَتِ النَّاقَةُ: اُونٹنی کا کم دودھ
دالی ہونا۔ صفت شُضُوْصُ. مُبْصِصٌ: نہیں

کہتے۔
الشَّيْصُ: مشاق چور۔ ج شُضُوْصُ

(..... والشَّصُّ) کچھلی شکار کرنے کا کانا۔
جس کو "سَبَازَةٌ" بھی کہتے ہیں۔ ج

شُضُوْصُ.
الشَّضُوْصُ. مِنَ الشُّوْقِ او الشَّيْءِ: کم

دودھ والی اُونٹنی یا بکری۔ ج شُضُصُ
و شَصَائِصُ و شَصَاصُ. سِنَّةٌ شُضُوْصُ:

خشک سال۔ کہا جاتا ہے "نَفَى اللّٰهُ عَنْكَ
الشَّضَائِصُ" اللہ تمہاری سختیوں کو دور

کرے۔
شَصَبُ (ن) شُضُوْبًا و شَصِبُ (س)

شَصَبًا. الْعَيْشُ: تنگ گزارن ہونا۔ صفت
(شَصَابُ)..... الْأَمْرُ: دشوار ہونا

..... الْمَكَانُ: قحط زدہ ہونا۔
شَصَبُ (ن) شَصَبًا. الشَّاةُ: بکری کی

کھال اُتارنا۔
أَشْصَبُ. اللّٰهُ عَيْشُهُ: تنگ گزارن کرنا۔

الشَّصْبُ: بختی۔ قحط۔ خشک سالی۔ حصہ۔ ج
أَشْصَابُ.

الشَّصْبُ و الشَّصْبُ: خشکی۔
الشَّصْبُ: کھال اتری ہوئی بکری۔ عَيْشُ

(شَصْبُ) دشوار و تنگ گزارن زندگی۔
الشَّصْبُ: حصہ۔ مسافر۔

الشَّصِيْبَةُ: بختی و خشک سالی۔ کتوئیں کی
گھرائی۔ ج شَصَابُ. الشَّصَابُ: پالان

کی لکڑی۔
الشَّصَابُ: قصاب۔

الشَّيْصَبَانُ: چیتوئیا یا اس کا سوراخ جنوں کا
ایک قبیلہ۔ شیطان کا نام۔

شَصْر (ن) شَصْرًا. الْقَوْبُ: کپڑے کو دور
دور سینا۔ لَكْرُؤُ النَّا..... فَلَاتَا بِالْوَمْحِ: کسی کو

نیزہ مارنا..... ه: التَّوْرُ: جبل کا سینک مارنا۔

کی خوبصورتی اور اعتدال۔

الشَّاطِطُ: فَاذْجُلُ شَاطِطٌ: سَدُولُ بَدَنِ وَالْأَمْرُ مَوْثُ شَاطِطَةٌ.

شَطَطًا (ف) شَطَاءٌ وَشَطُوءٌ: اِكْتِنَاهُ بِرُجُلَيْتِهِ
..... الذَّابِيَةُ بِالْحَمَلِ: جَانُوْرٌ بِرُجُلَيْتِهِ لَا دَانَ.

..... فَلَاتَا: مَغْلُوْبٌ كَرْنَا..... الْأُمُّ بِالْوَلَدِ: يَجْرُ
گرا دینا..... (وَاشْطَأَ) الزَّرْعُ: كَبِحَتْ

مِنْ خَوْشٍ تَكَلَّنَا. اِشْطَأَ الشَّجَرُ بِغَضُوْبِهِ
: دَرَحَتْ مِمَّنْ نَشِي تَكَلَّنَا. اِشْطَأَ الرَّجُلُ: زَكَامٌ

وَالْأَمْرُ هُوَ اِشْطَأَ الْوَادِي: دَوْنُوْنَ كِنَارُوْنَ بِرُجُلَيْتِهِ
بِهِنَا. كَبِحَتْ مِمَّنْ "مِلْنَا لُوَادِي كَمَدًا فَوَجَدْنَا

مُشْطَطًا" ہم فلاں وادی کی طرف متوجہ
ہوئے تو اس کو دونوں کناروں سے بہتا ہوا

پایا۔
شَطًا تَشْطِيْنَا. النَّهْرُ: دَوْنُوْنَ كِنَارُوْنَ بِرُجُلَيْتِهِ

بِهِنَا۔
شَاطِئَةٌ: اِيكٌ دَوْرٌ سَاھْمٌ دَرِيَا كِے

کنارے پر چلنا۔
الشَّاطِئَةُ: كِنَارُهُ. رَجُ شَطُوءٌ (وَالشَّاطِئَةُ) كَبِحَتْ

كِے پتے یا خوشہ۔ درخت خرما کے پودے۔
مِنَ الشَّجَرِ: شَاھِيسُ جُوْرَحَتْ كِي جُزْ مِمَّنْ تَكَلَّنَا

آئیں۔ رَجُ اِشْطَاءُ.
الشَّاطِئَةُ: زَكَامٌ۔

الشَّاطِي: فَا..... مِّنَ النَّهْرِ: جَانِبٌ۔ تَمَّ كَبِحَتْ
ہو "شَاطِي الْاَوْدِيَّة" اس کی جمع نہیں آتی۔

..... مِّنَ الْبَحْرِ: كِنَارُهُ۔ رَجُ شَوَاطِي
وَشَطَّانٌ.

شَطَبَ (ن) شَطَبًا. الشَّيْءُ: لِبَا كَانِيَا جِيْرَتَا
..... هُوَ وَشَطَبَ فَوْقَهُ: كَلْبِيْرٌ كَبِحْتَا..... الرَّجُلُ:

دُوْرٌ هُوَا..... غَنَةُ: اِعْرَاضُ كَرْنَا..... بَنَا.....
الرُّمْحُ عَن مَّقْبَلِهِ: نِيْزٌ كَا خَطَا كَرْنَا۔

شَطْبَةٌ: جِسْمٌ مِمَّنْ عَمَلٌ تَشْرِيْحُ كَرْنَا۔
تَشَطَّبَ: كَتْنَارٌ..... (وَالتَّشَطَّبَ) الْمَاءُ

وَنَحْوُهُ: بَهِنَا۔
الشَّطَبُ: مِمَّنْ لِبَا خُوْبُوْرَتِ قَدُوْقَا مَت

والا۔ درخت خرما کی تروبز شاخ۔ رَجُ
شَطُوبٌ.

الشَّطْبَةُ. مِّنَ النَّخْلِ: كَبِحُوْرُ كِي سَبْرُ شَاخٍ۔

تَلُوَارٌ۔ رَجُ شَطْبٌ: كَلْبِيْرٌ جُوْقَلُ تَحْرِيرٌ بِرُجُلَيْتِهِ
جائے..... (وَالشَّطْبَةُ) لِبَا خُوْبُوْرَتِ

لُرْكِي۔ اِيچھے گوشت والا گھوڑا۔
الشَّطْبَةُ وَالشَّطْبَةُ وَالشَّطْبَةُ: تَلُوَارٌ وَاخِيْرُهُ

كِے پھل کی دھاری۔ رَجُ شَطْبٌ.
الشَّطْبِيَّةُ: اَوْنْتُ كِے كُوْبَانُ كَا تَلُوَارُ جُوْلِبَا كَا كَث

لِاِيَا كِيَا هُوَا..... جِيْسِے شَطَابِي.
الشَّطَابِي: مَخْتَلَفٌ فَرَقٌ۔ مَخْتَلِيَا۔

سَيْفٌ (مَشْطُوْبٌ وَمَشْطَبٌ) دَحَارِي دَار
تَلُوَارٌ۔ رَجُ شَطْبٌ: دُوْهُ مَخْمُضٌ جِسْ كِے

چہرہ میں تلوار وغیرہ کی ضرب کا نشان ہو۔
شَطْرٌ (ن) شَطْرًا. الشَّيْءُ: دُوْرٌ اِبْرَحُوْصُوْ

مِمَّنْ كَرْنَا..... نِيْسَتْ الشَّيْءِ: شَعْرٌ كَا لِنَفْسِ
حَدَفُ كَرْنَا..... النَّاقَةُ اَو الشَّاةُ: اِيكٌ

جَانِبٌ كِے تَحْنُ كُو دُوھنَا دَوْرِے كُو چھوڑ دینا
اور کہتے ہیں شَطْرٌ شِطْرَةٌ: اِسْ نِے اِسْ كِي

جانب کا قصد کرنا۔
شَطْرَتْ (ن) شَطْرًا. النَّاقَةُ: اَوْنْتُ كِے تَحْنُ

كِے اِيكٌ حَصْرٌ كَا لِبَا هُوَا۔ شَطْرٌ بَصْرُهُ: اِسْ
طَرِحٌ دِكِيْنَا كِے تَمَارِي طَرَفٌ مَحِي نَظَرُ ہے اور

دوسرے جانب بھی..... السَّدَاؤُ: دَوْرٌ هُوَا
(شَطْرَاةٌ) شَوْخٌ وَبِے بَاكٌ هُوَا۔ چَالَاكٌ و

خَيْثٌ هُوَا..... شَطْرًا وَشَطْرًا
وَشَطْرَاةٌ (عَنْهَمُ) جِدَا وِعِيْدٌ هُوَا..... عَلِي

أَهْلُهُ: خَبَاثَتٌ دِكِيْنَتِي كِي وَجِے سِے مَوَافَقَتِ چھوڑ
دینا..... النَّيْمُ: مَتُوْجٌ هُوَا۔

شَطْرٌ (ك) شَطْرَاةٌ: شَوْخٌ وَبِے بَاكٌ
ہونا۔ چَالَاكٌ وَخَيْثٌ هُوَا..... شَطْرًا وَشَطْرًا

النَّاقَةُ) اَوْنْتُ كِے اِيكٌ پِستَانُ كَا دَوْرِے سِے
لِبَا ہونا۔ اِيكٌ پِستَانُ خَشْكٌ هُوَا۔

شَطْرٌ. الشَّيْءُ: دُوْحُوْصُوْ مِمَّنْ تَقْسِيْمُ كَرْنَا۔
..... الشَّيْءُ: شَعْرٌ كِے ہر مصرعے پر دوسرا مصرعہ

بڑھا دینا (مولدہ)..... النَّاقَةُ وَبِالنَّاقَةِ:
اَوْنْتُ كِے اِيكٌ طَرَفٌ كِے تَحْنُ كُو دُوھنَا

دوسرے کو چھوڑ دینا۔
شَاطِرَةٌ. مَالَةٌ: اَدَاھَا اَدَاھَا تَقْسِيْمُ كَرِيْنَا۔

فَلَاتَا: كِسِي كِے كَمْرٌ كِے مُتَصِلٌ كَمْرٌ وَاَلَا ہونا.....
النَّاقَةُ: اَوْنْتُ كِے اِيكٌ طَرَفٌ كِے تَحْنُ كُو دُوھنَا

دوسرے کو چھوڑ دینا۔
الشَّطْرُ: مِمَّنْ۔ جِزْءٌ۔ نِصْفٌ اَدْرَا سِي سِے ہے

"شَطْرٌ بَيْتِ الشَّيْءِ" شَعْرٌ كَا نِصْفٌ وَاَحَدٌ
دُوْرِيٌ جِت۔ جَانِبٌ اَدْرَا سِي سِے ہے

"شَطْرٌ شَطْرَةٌ....." وَ"فَوْرٌ وَجْهٌ كِے
شَطْرُ الْمَسْجِدِ" اِيچھے چہرہ كُو سِجْدِ كِي جَانِبٌ

پھیرو۔ رَجُ اِشْطُوْرٌ وَشَطُوْرٌ: نَاقَةُ كِے تَحْنُ كِے
دو حصے ہوتے ہیں دو اگلے اور دو پچھلے۔ ہر دو

ہاتھوں کو شطر کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے "حَلَبٌ
اِشْطَرٌ الذَّهْرُ" یعنی اس نے تجربہ کیا اور

زمانہ کے خیر و شر کو وہ پہچان گیا اور امثال
عرب سے ہے "هَذَا حَلَبٌ لَكَ شَطْرُهُ"

یہ ایسا عمل ہے جس میں فریقین کا نفع ہے۔
السَّيْطْرَةُ: اِسْمُ نَوْعٍ اَدْرَا كِے جاتا ہے "اَوَّلَاكُ

فُلَانٌ شَيْطْرَةٌ" یعنی فلاں کی اولاد نصف مذکر
نصف مؤنث ہے۔

الشَّطْرَانُ: سِرْفٌ نِصْفٌ تِكْ بَھرا ہوا مَوْثُ شَطْرِي.

الشَّاطِرُ: فَا۔ شَوْخٌ وَبِے بَاكٌ۔ چَالَاكٌ و
خَيْثٌ۔ رَجُ شَطَارٌ.

الشَّطُوْرُ. (مِنَ النَّعَاجِ اَو النَّوْقِ) بَحِيْرَتَا۔
اَوْنْتُ جِسْ كِے اِيكٌ جَانِبٌ كَا تَحْنُ لِبَا ہوا یا

اِيكٌ جَانِبٌ كَا تَحْنُ خَشْكٌ ہوا گیا ہو۔ شَطُوْبٌ
شَطُوْرٌ: كَبِحَتْ اِسْ كِي اِيكٌ جَانِبٌ دَوْرِے

سِے لِبَا ہوا۔ قَارٌ شَطُوْرٌ: دَوْرِے مَكَانُوْ
سِے عَلِيْمِدُ مَكَانٌ۔

الشَّاطِرُ: دَوْرٌ۔ اَكِيْلَا۔ سَاْفِرٌ۔ اِبْحِي۔ رَجُ
شَطْرَاءُ وَشَطْرٌ: اَدَاھَا كِے جاتا ہے "هَذَا

شَطْرَةٌ وَشَطِيْرَةٌ"۔ يِے اِسْ كَا اَدَاھَا ہے۔ جِيْسِے
کہا جاتا ہے "هَذَا نِصْفُهُ وَنِصْفُهُ"

المَشْطُوْرُ: مَفْعٌ۔ مِشِي كِي ہونی روئی۔
مِنَ الرَّجْزِ: فَنَ عَرُوْصُوْ كِي اِصْطِلَاحٌ مِمَّنْ بِحَر

رَجْزِ كِے چھ اجزاء مِمَّنْ سِے تَمِيْنٌ جِزْ حَدَفُ كِيَا
ہوا۔
المَشَاطِرُ: مِمَّنْ اِيچھے۔ كِے جاتا ہے "هَمْ

مُشَاطِرُونَ“ ان کے گھر ہمارے گھر سے متصل ہیں۔

الشُّطْرُنَج: ایک مشہور کھیل ہے۔ سُکْرَت لفظ چترانگ کا معرب۔ اس میں چھ قسم کے مہروں سے کھیلتے ہیں جو شاہ فرزین، قیل، اسپ، رخ اور پیدل کہلاتے ہیں۔ رَج شُطْرُنَجَات۔

شَطْس (ن) شَطْسَا. فِي الْأَرْضِ: سَفَر کرتا۔

الشُّطْس: مص۔ چالاک۔ الشُّطْسُ وَالشُّطْسَةُ: مخالفت۔ دشمنی۔ عناد۔

الشُّطُوس: ہر طرف کو جانے والا۔ حکم کے خلاف چلنے والا۔

شَطِع (س) شَطَعًا. الرَّجُلُ: مَرِيضٌ وَغَيْرُهُ كِي وَجِبَّ سَهْمِ الرَّجُلِ۔

شُطَّف (ن) شُطْفًا. الرَّجُلُ: جَانَا أَوْ دَوْرُورُ هُونَا..... عَنِ الشَّيْءِ: بُنَا..... النَّوْبُ وَغَيْرُهُ: كِبْرٌ أَوْ نِيرٌ هُونَا۔

سَهْمٌ (شاطف) نشانہ سے خطا کرنے والا تیر۔ يَهْ (شُطُوف) ارادہ بے پرواے پایاں۔ الشُّطْفَةُ: مِنَ الشَّيْءِ: كَلْبًا۔ رَج شُطْفٌ۔

شُطْمٌ (ن) شُطْمًا. إِمْرَأَتُهُ: جَمَاعٌ كَرْنَا۔ شُطْنَةٌ (ن) شُطْنًا. مَخَالَفَتٌ كَرْنَا۔ دَوْرُ كَرْنَا۔ رِي سَ بَانْدَحَا۔ شُطْنٌ فِي الْأَرْضِ: دَاخِلٌ هُونَا..... شُطُونًا) الدَّارُ: دَوْرُ هُونَا۔

الرَّجُلُ: حَقٌّ وَغَيْرُهُ سَ دَوْرُ هُونَا..... أَشُطْنَةٌ: دَوْرُ كَرْنَا۔

شُطْنٌ شُطْنَةٌ وَشُطْنٌ: شَيْطَانِيٌّ قَلْبٌ كَرْنَا۔ الشَّاطِنُ: فَاحِشٌ۔ حَقٌّ سَ دَوْرُ هُونَةٌ وَاللَّـ

الشُّطْنُ: رَتِي۔ رَجِ الشُّطْنَانُ۔

يَنْوُرٌ (شُطُونٌ) زِيَادَةٌ كَبِيرَةٌ كَرْنَا۔ حَرْبٌ شُطُونٌ: بَهْتٌ خَتٌ جَبْ كَرْنَا۔ يَهْ شُطُونٌ: ارَادَةٌ بَعِيدَةٌ مَعَ شُطُونٌ: لِمَا يُزْهَى نِيرُهُ۔

الشُّطِينُ: دَوْرُ۔

الشُّيْطَانُ: رَجِ شَيْطَانِيٌّ: دِيو۔ ہر سرکش و

نا فرمان (آدی ہو یا جن یا جانور) اور اسی سے ہے "شَيْطَانِيٌّ الْعَرَبُ" عرب کے سرکش و نا فرمان لوگ۔ سَابِ: شَيْطَانُ الْفَلَاةِ: پِيسَا۔ مُخَاطِ الشَّيْطَانِ: تَرَمَرٌ لِيَعْنِي وَهُوَ حَيْزٌ جَوْرِيٌّ كَ زَمَانِ فِي مِثْلِي كَ جَالِ كِي مَانْدَفَا فِي مَعْلُومٌ هُونِي هِي أَوْ كَبَا جَانَا هِي "زَكِيهٌ شَيْطَانُهُ" لِيَعْنِي وَهُوَ غَضْبَانٌ هُوَاو "شَيْطَانِيٌّ الرَّاسُ" غَضَبٌ كَا جُوشٌ۔

المُشِطَّةُ: أَوْتٌ كَ چَوْرُ كَا دَاغٌ۔

المُشَاطِنُ: ذُوْلٌ كُو دَوْرِي سِيو سَ كَ سَ بِنَجِي وَاللَّـ شَطِي (س) شَطِيًا. المَيْتُ: مَيْتٌ كَ ہَاتھ پيروں کا اٹھ جانا۔

شَطِي تَشَطِيَةً. الشَّاةُ: كَهَالٌ أَتَارْنَا أَوْرُ گوشت کو جدا جدا کرتا۔

إِنْشَطِي. الشَّيْءُ: پَرَا كِنْدَهُ وَتَفَرَّقٌ هُونَا۔

شَطْلَةٌ (ن) شَطْلًا. الاْمُرُ: دُشْوَارٌ هُونَا۔ خَتِي فِي ذُو النَّارِ..... وَشَطَطٌ وَأَشْطُ القَوْمُ: پَرَا كِنْدَهُ وَتَفَرَّقٌ كَرْنَا۔ دَهْتَا كَرْنَا۔ شَطٌّ وَأَشْطٌ الْجَوَالِقُ: بُزْ هَسَرٌ سَ كِي كَلْبِي كُو بُوْرَسَ كَ دَوْنُوں گوشتوں میں باندھنا۔

الشُّطَّ: مِص۔ دِنٌ كَا بِيْرَةٍ۔ رَجِ أَشْطَاظًا. الشُّطَاظُ: نِيْزٌ هَسَرٌ سَ كِي كَلْبِي جُو بُوْرَسَ كَ دَوْنُوں گوشتوں میں داخل ہو۔ رَجِ أَشْطَاظًا۔

الشُّطِيظُ: بِنْدَحَا هُوَا بُوْرَا۔ حَرِي هُونِي كَلْبِي۔ رَجِ أَشْطَاظًا: كَبَا جَانَا هِي "حَاوْرَا أَشْطَاظًا" أَوْ رَجِ أَشْطَاظًا لِيَعْنِي وَهُوَ لُوكٌ تَفَرَّقٌ هُوْغِي۔

شُطِف (س) شُطْفًا. العَيْشُ: نَجْ كَزِرَانٌ هُونَا..... الرَّجُلُ: نَجْ كَزِرَانٌ وَاللَّ هُونَا۔ صِفَتٌ (شُطْفٌ) العَيْشُ: شُطِفَتْ يَدُهُ: خَتٌ أَوْ كَرُورَا هُونَا..... السَّهْمُ: تِيرٌ كَا كَهَالٌ أَوْ رُكُوْتٌ كَ دَرْمِيَانٌ دَاخِلٌ هُونَا۔ (.....) وَشُطِفَ (ك) شُطْفَةً الشَّجَرُ: خَتٌ هُونَا صِفَتٌ (شُطْفٌ)

شُطْفَهُ (ن) شُطْفًا. عَنِ كَذَا: جَمْعٌ كَرْنَا۔ رُو كْنَا۔

الشُّطْفُ: مِص۔ رَجِ شُطْفَا و (الشُّطْفَا) تَنَكُّ وَخَتِي۔

الشُّطْفَا: دَوْرِي۔

الشُّطْفُ: مِص۔ لَانْحِي كِي بَحْنٌ۔

الشُّطْفُ: خَتْ كَ رُوِي۔ كَهُونِي كِي مَانْدَكَلْبِي۔ حِجِي۔ رَجِ شُطْفَةً۔

الشُّطْفُ: بَدِخْلٌ۔ يَزَا جَنْبُو۔ عُوْدٌ شُطْفٌ: ثُوِي هُونِي كَلْبِي۔ أَرْضٌ شُطْفَةٌ: خَتٌ وَخَتٌ زَمِيْنٌ۔

المِشْطَفُ: بَ ارَادَةٌ تَحْرِيشُ كَرْنَا وَاللَّـ

الشُّيْطَانُ وَالشُّيْطَانِيَّةُ: لِمَا تَاوْرُ جَوَانٌ (كَهُوْرَا أَوْتٌ يَا آدِي) مَوْنَتٌ شُيْطَانَةٌ

رَجِ شُيْطَانَةٌ. الشُّيْطَانُ: بُوْرَا۔ سَبِي۔ شِير۔

شُطِي (س) يَشُطِي شُطِيًا: پِشْتَا۔ القَوْمُ: تَفَرَّقٌ هُونَا۔

شُطِي يَشُطِي شُطِيًا. السَّقَاةُ: خُوبٌ كَ حِي

طَرَحٌ بَهْرُ جَانَا..... السَّمِيْتُ: مَيْتٌ كَ ہَاتھ پيروں کا اٹھ جانا۔

شُطِي تَشُطِيَةً. القَوْمُ: تَفَرَّقٌ كَرْنَا.....

القَوْمُ: كَهْنِي كِي بَارِي كِي بُوْرَا۔

أَشْطِي: هَسَرٌ كِي بَارِي كِي بَارَا۔

تَشُطِي: پِشْتَا۔ تَفَرَّقٌ هُونَا..... العُوْدُ: كَلْبٌ كَلْبِي۔

إِنْشَطِي: پِشْتَا۔

الشُّطِي: مِص۔ دَسْتُ يَزَانُو كِي تَبِي أَوْرُ

جَهُوِي بُوْرَا يَا نِ كَ جَهُوِي جَهُوِي تَبِي۔

قَوْمٌ كَ پِيرُو۔ اَجْمِي لُوكٌ جُو قَوْمٌ فِي دَاخِلٌ هُو جَانِي۔

الشُّطِيَّةُ: كِمَانٌ۔ پَنْدِي كِي بُوْرَا۔ كَلْبِي۔

بُوْرَا وَغَيْرُهُ كَا كَلْبًا۔ رَجِ شُطْيَانًا وَشُطِيًا۔

الشُّطِيَّةُ: پِشْتَا۔ پِشْتَا بُوْرَا جُو پِشْتَا سَ اِي كِ طَرَفٌ كَا كَلْبًا هُوَا۔

شَع (ض) شَعًا وَشَعَاعًا. المَاءُ: كَبْهَرْنَا۔

شَعًا وَشَعَاعًا جَلْدِي كَرْنَا۔

شَع (ن) شَعًا وَشَعَاعًا. المَاءُ: كَبْهَرْنَا۔ كَبَا

جَانَا هِي "شَعُ العَاْرَةُ عَلِيْهِمْ" ہر طَرَفٌ سَ لُوثٌ ذُو النَّـ

أَشَعُ إِشْعَاعًا. المَاءُ وَنَحْوُهُ: كَبْهَرْنَا

..... الشَّمْسُ: شَعَاعٌ كَبْهَرْنَا..... الزَّرْعُ: كَبْهَرْنَا

میں خوش رکھنا..... السُّبُلُ: دانوں سے بہ ہونا۔

انْشَعُ. الذَّنْبُ فِي الْغَنَمِ: بھیڑیے کا بکریوں میں تباہی ڈالنا۔

الشَّعُ: بکری کا جالا۔ شَعُ الشَّمْسِ: آفتاب کی کرن۔

الشَّعَاعُ: آفتاب کی کرن۔ جِ اشْعَةُ: وشعع وشعاع.

الشَّعَاعُ: (علم ہندسہ)۔ خط مستقیم کا ٹکڑا جس کو سامنے لے جایا گیا ہو خط مستقیم کا قطعہ جو مرکز اور نقطہ دائرہ کو ملا دے۔ اس کا نام شعاع الدائرہ ہے۔

اشْعَةُ: س اور ن سجن: غیر مڑتی شعاعیں غیر شفاف اجسام جیسے لکڑی اور معدنی پلٹ کو جلاتی ہے۔

اشْعَةُ مَا قَبْلَ الاخْضَرِ: سفید روشنی میں موجود غیر مڑتی شعاعیں جن کا وقوع شرارے میں سرخ رنگ سے قبل ہوتا ہے بہت گرم ہوتی ہیں۔ اشْعَةُ مَا بَعْدَ الْبِنْفَسْجِي غير مڑتی

سفید روشنی میں موجود شعاعیں جن کا وقوع شرارت میں پیشی کے بعد ہوتا ہے۔ یہ فوٹو گرافی کی پلیٹ پر نشان چھوڑ جاتی ہے۔ اس کے ذریعے اس کے وجود کا علم ہوتا ہے۔

الاشْعَةُ الْمُهَيَّطَةُ: ہلکے (خفیف) گیس کی نالی میں بجلی کے آنے کی وجہ سے نیچے سے اوپر کی طرف بجلی کے شرارے جاتے ہیں۔

الشَّعَاعُ: شعاع کو چھوڑنے کا آلہ۔ الشَّعَاعُ: مَص - خون وغیرہ کا کھڑنا۔ ہلکا سا بہ..... مِنَ اللَّيْنِ: زیادہ پانی ملا ہو اور دھبہ ہر کھری ہوئی چیز۔ کہا جاتا ہے "حَسْرَتٌ بِالْعِصَاءِ عَلَيَّ الْخَائِبِ فَتَطَايَرَتْ شَعَاعًا"

میں نے لاشھی کو دیوار پر مارا جس کی وجہ سے لاشھی کے چہترے اڑ گئے۔ و"ذَهَبَ الْقَوْمُ شَعَاعًا" قوم کھری گئی و"طَارَ قَلْبُهُ شَعَاعًا" اس کا دل نموں کی وجہ سے پراگندہ ہو گیا۔

و"طَارَتْ نَفْسُهُ شَعَاعًا" خوف وغیرہ کی وجہ سے اس کا جی پراگندہ پریشان ہو گیا۔

شُعَاعُ السُّبُلِ وَشِعَاعُهُ وَشِعَاعُهُ وَشَعْعُهُ: خوشہ کا خشک کا ٹانجا جب تک کہ خوشہ پر رہے۔ الشُّعُ وَالشُّعَيْعُ: جلدی۔ وَالشُّعُ مِنْ كَلْبٍ شِي: بھری ہوئی۔

شُعَبٌ (ف) شُعْبًا. الشِّي: جمع کرنا۔ متفرق کرنا۔ درست کرنا۔ بگاڑنا (ضد) بھاڑنا۔

..... الشِّي: ظاہر ہونا..... الْقَوْمُ: متفرق ہونا..... الرَّجُلُ: مرنا۔ شُعْبَتُهُ الْمَيْبُتَةُ: اچانک ہلاک کرنا..... فَلَانًا: مشغول کرنا..... اللَّجَامُ

الْفَرَسُ: لگام کا گھوڑے کو روکنا اور دوسری طرف کو پھیرنا۔ کہا جاتا ہے "اِنْشَعَبَ لِي شُعْبَةً مِنَ الْمَالِ" یعنی اپنے مال میں سے ایک حصہ مجھ کو دو۔ شُعَبٌ إِلَى الْقَوْمِ: اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر قوم کی طرف مائل ہونا..... الْاَيْسَرُ سُوْلًا إِلَى مَوْضِعٍ كَذَا:

پیغامیر بنا کر بھیجنا۔ شُعَبٌ (س) شُعْبًا. الرَّجُلُ أَوْ الْفَوْزُ: کندھوں اور سینگوں کے درمیان فاصلہ والا ہونا۔ شُعَبٌ وَأَشْعَبُ: عَنَةُ: ہمیشہ کے لئے جدا ہونا۔ أَشْعَبُ الرَّجُلُ: مرنا۔

شَاعَبَ. وَشَاعَبَتْ نَفْسُهُ: مرنا۔ شَاعَبَ الْحَيَوَةُ: ہلاک کرنا..... صَاحِبَهُ: دور ہونا۔ الشُّعْبُ: بڑا قبیلہ۔ وہ طبقات جن پر عرب کی نسل تقسیم ہیں درج ذیل ہیں: (۱) الشُّعْبُ (۲) الْقَبِيْلَةُ (۳) الْعِمَارَةُ (۴) الْبَطْنُ (۵) الْفَجْدُ (۶) الْفَصِيْلَةُ (۷) الْعَشِيْرَةُ: شعب میں کئی قبائل ہوتے ہیں قبیلہ میں کئی عمارہ عمارہ میں کئی بطن بطن میں کئی مخد مخد میں کئی فصیلہ اور فصیلہ میں کئی عسیرہ ہیں۔

خزیمہ شعب ہے کنانہ قبیلہ قریش عمارہ قصی بطن ہاشم مخد اور عباس فصیلہ ہے۔ عسیرہ سے مراد ایک باپ کے قریب ترین بیٹے۔

تَشَعَّبُوا: متفرق ہونا۔ تَشَعَّبَ الزَّرْعُ: شاخوں والی ہونا..... النَّهْرُ: متفرق شاخیں لگانا..... عَنَةُ: دور ہونا۔ تَشَعَّبَتْهُمُ الْفِتْنَةُ:

جد جدا کرونا۔ تَشَعَّبَتْ أَغْصَانُ الشَّجَرَةِ: متفرق شاخیں پھیلنا..... الشِّي: درست ہونا۔ اِنْشَعَبَ: عَنَةُ: دور ہونا..... أَغْصَانُ الشَّجَرَةِ: جڑ سے شاخیں لگانا..... الطَّرِيقُ أَوْ النَّهْرُ: جدا ہونا۔ اِنْشَعَبَ الرَّجُلُ وَانْشَعَبَ نَفْسُهُ: مرنا..... الشِّي: درست ہونا۔ اِنْشَعَبَ بِهِ الْقَوْلُ: بات میں سے بات لگانا۔

الشُّعْبُ: مَص - بڑا قبیلہ۔ لوگوں کی جماعت مثل۔ کہا جاتا ہے "هَمَّا شُعْبَانٌ" وہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ دوری۔ دور۔ کہا جاتا ہے "مَاءٌ شُعْبٌ" دور کا پانی۔ سر کے ٹکڑوں کے ملنے کی جگہ۔ شِكَاف - کہا جاتا ہے "الْقَامُ شُعْبُهُمْ" وہ لوگ متفرق ہونے کے بعد جمع ہو گئے۔ جِ شُعُوبٌ.

الشُّعُوبِيَّةُ: وہ لوگ جو عرب کی تحارت کریں اور عجم پر فضیلت نہ دیں۔ واحد (شُعُوبِيٌّ) الشُّعْبُ: پہاڑی راستہ۔ پانی کا راستہ۔ درۃ کوہ۔ بڑا قبیلہ۔ جانب۔ جِ شُعَابٌ اور کہتے ہیں۔ "شَغَلْتُ شُعَابِي جَدِوَامِي" یعنی اہل و عیال پر خرچ کی وجہ سے دوسروں پر مہربانی کرنے سے باز رہا۔

الشُّعْبُ: مَص - دونوں کندھوں یا دونوں سینگوں کے درمیان کا فاصلہ۔ الشُّعْبَةُ: فرقہ۔ کسی چیز کا گروہ۔ شَاخٌ - دونوں سینگوں یا دو شاخوں کے درمیان کا فاصلہ۔ پانی بننے کی جگہ۔ وادی کی بڑی نالی۔ پہاڑی دراڑ۔ جِ شُعَبٌ وَشِعَابٌ وَشُعَبٌ الدَّهْرُ: زمانہ کے احوال۔ شُعَبٌ السُّفُودِ: بیٹے کے دندانے جس میں جھونٹے کے لئے گوشت لٹکاتے ہیں۔ شُعَبُ الْيَدِ: انگلیاں۔ شُعَبُ الْفَرَسِ: گھوڑے کے اطراف جو بلند ہوں جیسے سرو وغیرہ۔ شُعَبُ الْجَسْمِ: ہاتھ پاؤں۔ شُعْبَتَا الرَّجُلِ: کچا وہ کاگا لگا پھیلا حصہ اور کہا جاتا ہے "هَذِهِ مَسَالَةٌ كَثِيرُ الشُّعْبِ" یہ ایسا مسئلہ ہے جس

جد جدا کرونا۔ تَشَعَّبَتْ أَغْصَانُ الشَّجَرَةِ: متفرق شاخیں پھیلنا..... الشِّي: درست ہونا۔ اِنْشَعَبَ: عَنَةُ: دور ہونا..... أَغْصَانُ الشَّجَرَةِ: جڑ سے شاخیں لگانا..... الطَّرِيقُ أَوْ النَّهْرُ: جدا ہونا۔ اِنْشَعَبَ الرَّجُلُ وَانْشَعَبَ نَفْسُهُ: مرنا..... الشِّي: درست ہونا۔ اِنْشَعَبَ بِهِ الْقَوْلُ: بات میں سے بات لگانا۔

الشُّعْبُ: مَص - بڑا قبیلہ۔ لوگوں کی جماعت مثل۔ کہا جاتا ہے "هَمَّا شُعْبَانٌ" وہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ دوری۔ دور۔ کہا جاتا ہے "مَاءٌ شُعْبٌ" دور کا پانی۔ سر کے ٹکڑوں کے ملنے کی جگہ۔ شِكَاف - کہا جاتا ہے "الْقَامُ شُعْبُهُمْ" وہ لوگ متفرق ہونے کے بعد جمع ہو گئے۔ جِ شُعُوبٌ.

الشُّعُوبِيَّةُ: وہ لوگ جو عرب کی تحارت کریں اور عجم پر فضیلت نہ دیں۔ واحد (شُعُوبِيٌّ) الشُّعْبُ: پہاڑی راستہ۔ پانی کا راستہ۔ درۃ کوہ۔ بڑا قبیلہ۔ جانب۔ جِ شُعَابٌ اور کہتے ہیں۔ "شَغَلْتُ شُعَابِي جَدِوَامِي" یعنی اہل و عیال پر خرچ کی وجہ سے دوسروں پر مہربانی کرنے سے باز رہا۔

الشُّعْبُ: مَص - دونوں کندھوں یا دونوں سینگوں کے درمیان کا فاصلہ۔ الشُّعْبَةُ: فرقہ۔ کسی چیز کا گروہ۔ شَاخٌ - دونوں سینگوں یا دو شاخوں کے درمیان کا فاصلہ۔ پانی بننے کی جگہ۔ وادی کی بڑی نالی۔ پہاڑی دراڑ۔ جِ شُعَبٌ وَشِعَابٌ وَشُعَبٌ الدَّهْرُ: زمانہ کے احوال۔ شُعَبٌ السُّفُودِ: بیٹے کے دندانے جس میں جھونٹے کے لئے گوشت لٹکاتے ہیں۔ شُعَبُ الْيَدِ: انگلیاں۔ شُعَبُ الْفَرَسِ: گھوڑے کے اطراف جو بلند ہوں جیسے سرو وغیرہ۔ شُعَبُ الْجَسْمِ: ہاتھ پاؤں۔ شُعْبَتَا الرَّجُلِ: کچا وہ کاگا لگا پھیلا حصہ اور کہا جاتا ہے "هَذِهِ مَسَالَةٌ كَثِيرُ الشُّعْبِ" یہ ایسا مسئلہ ہے جس

جد جدا کرونا۔ تَشَعَّبَتْ أَغْصَانُ الشَّجَرَةِ: متفرق شاخیں پھیلنا..... الشِّي: درست ہونا۔ اِنْشَعَبَ: عَنَةُ: دور ہونا..... أَغْصَانُ الشَّجَرَةِ: جڑ سے شاخیں لگانا..... الطَّرِيقُ أَوْ النَّهْرُ: جدا ہونا۔ اِنْشَعَبَ الرَّجُلُ وَانْشَعَبَ نَفْسُهُ: مرنا..... الشِّي: درست ہونا۔ اِنْشَعَبَ بِهِ الْقَوْلُ: بات میں سے بات لگانا۔

الشُّعْبُ: مَص - بڑا قبیلہ۔ لوگوں کی جماعت مثل۔ کہا جاتا ہے "هَمَّا شُعْبَانٌ" وہ دونوں ایک جیسے ہیں۔ دوری۔ دور۔ کہا جاتا ہے "مَاءٌ شُعْبٌ" دور کا پانی۔ سر کے ٹکڑوں کے ملنے کی جگہ۔ شِكَاف - کہا جاتا ہے "الْقَامُ شُعْبُهُمْ" وہ لوگ متفرق ہونے کے بعد جمع ہو گئے۔ جِ شُعُوبٌ.

الشُّعُوبِيَّةُ: وہ لوگ جو عرب کی تحارت کریں اور عجم پر فضیلت نہ دیں۔ واحد (شُعُوبِيٌّ) الشُّعْبُ: پہاڑی راستہ۔ پانی کا راستہ۔ درۃ کوہ۔ بڑا قبیلہ۔ جانب۔ جِ شُعَابٌ اور کہتے ہیں۔ "شَغَلْتُ شُعَابِي جَدِوَامِي" یعنی اہل و عیال پر خرچ کی وجہ سے دوسروں پر مہربانی کرنے سے باز رہا۔

الشُّعْبُ: مَص - دونوں کندھوں یا دونوں سینگوں کے درمیان کا فاصلہ۔ الشُّعْبَةُ: فرقہ۔ کسی چیز کا گروہ۔ شَاخٌ - دونوں سینگوں یا دو شاخوں کے درمیان کا فاصلہ۔ پانی بننے کی جگہ۔ وادی کی بڑی نالی۔ پہاڑی دراڑ۔ جِ شُعَبٌ وَشِعَابٌ وَشُعَبٌ الدَّهْرُ: زمانہ کے احوال۔ شُعَبٌ السُّفُودِ: بیٹے کے دندانے جس میں جھونٹے کے لئے گوشت لٹکاتے ہیں۔ شُعَبُ الْيَدِ: انگلیاں۔ شُعَبُ الْفَرَسِ: گھوڑے کے اطراف جو بلند ہوں جیسے سرو وغیرہ۔ شُعَبُ الْجَسْمِ: ہاتھ پاؤں۔ شُعْبَتَا الرَّجُلِ: کچا وہ کاگا لگا پھیلا حصہ اور کہا جاتا ہے "هَذِهِ مَسَالَةٌ كَثِيرُ الشُّعْبِ" یہ ایسا مسئلہ ہے جس

جد جدا کرونا۔ تَشَعَّبَتْ أَغْصَانُ الشَّجَرَةِ: متفرق شاخیں پھیلنا..... الشِّي: درست ہونا۔ اِنْشَعَبَ: عَنَةُ: دور ہونا..... أَغْصَانُ الشَّجَرَةِ: جڑ سے شاخیں لگانا..... الطَّرِيقُ أَوْ النَّهْرُ: جدا ہونا۔ اِنْشَعَبَ الرَّجُلُ وَانْشَعَبَ نَفْسُهُ: مرنا..... الشِّي: درست ہونا۔ اِنْشَعَبَ بِهِ الْقَوْلُ: بات میں سے بات لگانا۔

کی تفریحات بہت ہیں۔

شُعْبَانُ: قمری مہینوں کا آٹھواں مہینہ۔ ج
شُعْبَانَاتُ وَشُعْبَانِينَ (کلہ غیر منصرف ہے)
شُعْبُوبُ: موت کے لئے علم ہے اور غیر
منصرف ہے۔

الاشعْبُ: جس کے کندھوں یا سینگوں کے
درمیان بہت فاصلہ ہو۔ ٹوٹے ہوئے سینگ
والا۔ مَوْنُثُ شُعْبَاءُ: ج شُعْبُ.

الشُعَابُ: شگاف کو درست کرنے والا۔ پیش
کا نام (الشُعَابِيَّة) ہے۔

الشُعَيْبُ: کجاوہ۔ پرانی مشک۔ توشہ دان۔
ج شُعْبُ.

الشُعَابِيَانُ: دونوں کندھے۔

المَشْعَبُ: راستہ۔ کہا جاتا ہے "هَذَا
مَشْعَبُ الْحَقِّ" یہ حق کا راستہ ہے جو حق اور
باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ ج
مَشَاعِبُ.

المِشْعَبُ: سوراخ کرنے کا آلہ۔ ج
مَشَاعِبُ.

المَشْعَبُ: درست کیا ہوا۔

شُعْبَدُ: شعبدہ بازی کرنا۔ بازی گری کرنا۔
شُعْبُ (س) شُعْبَانُ: پراگندہ ہونا۔
(..... شُعْبَانُ وَشُعْبَانَةٌ) الشُعْرُ: بالوں کا غبار
آلود ہونا۔ چٹ جانا۔

شُعْتُ: الشُّيْ: متفرق کرنا۔ بکھیرنا۔
پراگندہ ہونا۔ هـ بِخَيْرٍ: خیر پہنچانا۔ مِنْ
فُلَانٍ: چشم پوشی کرنا۔ مِنْهُ شَيْئًا: لے لینا۔
نَكَالَ لَيْنًا: غنہ نہ اذیت کرنا۔ مِنْ

الطَّعَامِ: تھوڑا کھانا..... الشَّاعِرُ: شاعر میں
تھیب جاری کرنا (تھیبت علم عروض کی
اصطلاح میں "فَاعْلَاهُنَّ" کے مد کے دو
متحرک میں سے ایک متحرک حذف کرنے کو
کہتے ہیں۔ جس کی وجہ سے وہ مقفول کے

وزن پر ہو جاتا ہے۔)

تَشَعَّتْ: پراگندہ ہونا۔ بکھرنا..... مِنْ الطَّعَامِ
تَجُوزُ: تھوڑا کھانا..... الشُّعْرُ: بالوں کا چٹ جانا

اور غبار آلود ہونا..... الشُّعْرُ: شعر میں تبعث

جاری ہوتا۔

الاشْعَثُ: چکٹے ہوئے اور غبار آلود بال
والا۔ مَوْنُثُ شُعْشَاءُ: ج شُعْثُ.
الشُّعْثُ: پراگندگی معاملہ۔

الشُّعْثُ: مص۔ کہا جاتا ہے "لَمْ يَلْمُ
شُعْثُهُمُ" اللہ نے ان کے امر کو جمع کر دیا۔

الشُّعْثُ وَالشُّعْثَانُ: چکٹے ہوئے اور غبار
آلود بال والا۔

شُعْرُ (ن) شُعْرًا وَشُعْرًا: القُوبُ: کپڑے
میں بال بھرتا..... الرَّجُلُ: شعر کہتا
..... يَفْلَانُ: کسی کے لئے شعر کہتا۔

شُعْر (ن) وَشُعْر (ك) شُعْرًا وَشُعْرًا
وَشُعْرِي وَشُعْرِي وَشُعْرِي وَشُعْرِي
بشَلِيثِ الشَّيْنِ وَشُعْرًا وَشُعْرًا
وَمَشْعُورًا وَمَشْعُورَةً وَمَشْعُورًا بِهِ:
جاننا۔ محسوس کرنا..... لَهْ: جھٹنا۔

شُعْر (س) شُعْرًا: زیادہ اور لمبے بال والا
ہونا۔

شُعْرُ: الجَنِينُ: جنین کے شکم مادر میں بال
لگانا..... القُوبُ وَنَحْوُهُ: کپڑے میں بال
بھرتا۔

أشْعَرُ: الجَنِينُ: جنین کے شکم مادر میں بال
لگانا..... القُوبُ: کپڑے وغیرہ میں بال بھرتا
..... هـ الأَمْرُ وَبِالأَمْرِ: جتا دینا۔ خبر دینا۔

الشُّعَارُ: شُعَارُ (وہ کپڑا جو بالوں سے متصل
ہو) پہنانا اور کہا جاتا ہے "أشْعَرُ الهِمُّ
قَلْبِي" غم میرے دل کے ساتھ چپک گیا۔
أشْعُرَةٌ بِكَذَا: مقرر کرنا۔ ایک دوسرے کو

علامت مقررہ سے پکارتا۔
..... أَمْرُ فُلَانٍ: مشہور کرنا..... الرَّجُلُ:
بڑے نام سے مشہور کرنا..... هـ شُعْرًا:
ذہان پ لینا۔

شَاعِرُهُ فَشَعْرُهُ: شعروں میں غالب ہونے
کے لئے مقابلہ کرنا اور غالب ہونا۔

أشْعَرُ: المَلِكُ: بادشاہ کا قتل کیا جانا۔
تَشَعَّرُ: الجَنِينُ: جنین کے شکم مادر میں بال

لگانا۔

تَشَاعَرُ: جتکلف شاعر بننا۔

إِسْتَشْعَرُ: الجَنِينُ: جنین کے شکم مادر میں
بال لگانا..... الشُّعَارُ: پہننا..... القُوبُ: ایک
دوسرے کو علامت خاص سے پکارتا.....

بِالشُّعُوبِ: شعار کو کپڑوں کے نیچے پہننا۔ کہا
جاتا ہے "إِسْتَشْعَرُ خَوْفَ اللّٰهِ" اللہ کے
خوف کو اپنے قلب کے لئے شعار بنا لو۔

الشُّعْرُ وَالشُّعْرُ: بال۔ ج أشْعَارُ وَشِعَارُ
وَشُعُورُ: واحد (شُعُورَةٌ) ج شُعْرَاتُ. شُعْرُ
القَوْلِ: ایک قسم کی بات۔

الشُّعْرُ: بصر۔ کلام منظوم۔ ج أشْعَارُ.
"لَيْتَ شِعْرِي فُلَانًا أَوْ عَنَ فُلَانٍ أَوْ لِفُلَانٍ
مَا ضَعَّ" یعنی کاش مجھے فُلَانِ کے متعلق علم ہو
گیا ہوتا کہ اس نے کیا کیا۔

الشُّعْرَةُ: بال کا ایک ٹکڑا (..... والشُّعْرَاءُ)
ناف کے نیچے بال اگنے کی جگہ۔

الشُّعْرُ وَالشُّعْرَانِي: بہت اور لمبے بال
والا۔

الشُّعَارُ: درختوں والی جگہ۔ نرم زمین میں
گنجان درخت جہاں لوگ سردی میں گرمی
حاصل کریں اور گرمی کے زمانہ میں سایہ
لیں۔ درخت۔ بدن کے بالوں سے متصل
لباس۔ شُعَارُ الخَجِّ: احکام حج و رسوم حج۔
واحد (شُعَارَةٌ)

الشُّعَارُ: بخصوص لفظ جس سے فوج والے
ایک دوسرے کو پہچانیں یا لڑائی کے موقع پر
ایک دوسرے کو پکاریں۔ مولدین اس کو
"بِسْرِ اللَّيْلِ" کہتے ہیں۔ لڑائی یا سفر میں مقرر
کردہ علامت۔ بدن کے بالوں سے متصل
لباس۔ گھوڑے کا جھول۔ کُرْكُ۔ گنجان

درخت۔ ج أشْعُرَةٌ وَشُعْرُ. شُعَارُ الخَجِّ:
علامت و رسوم حج۔ وَشُعَارُ المَمْلِكَةِ:
حکومت کے علامات۔ واحد (شُعَارَةٌ)

الشُّعَيْرُ: جو۔ واحد (شُعَيْرَةٌ) ج شُعَيْرَاتُ:
اور شُعَيْرَةٌ: کا اطلاق اس پیتائش پر بھی ہوتا
ہے جو خچر کے بالوں کے چھ بال کے برابر
ہو۔ نیز گواہی جو آنکھ کے پلک کے کنارے

ہو۔

پر ہوتی ہے۔

الشَّعْبْرَةُ: علامت۔ ج شعائیر، شعائیر الخج: حج کے رسوم و علامات۔

الشَّعْبُورِي: شاعر کی جانب منسوب۔ جو کا بیچنے والا۔

الأشْعَر: بہت اور لمبے بال والا۔ مؤنث شعراء: ج شعور: کہا جاتا ہے "فَلَانٌ أَشْعَرُ الرَّقَبَةِ" یعنی فلاں گردن پر بہت بالوں والا ہے گویا کہ وہ شیر ہے۔ الأشعر: ج أشاعر: جانور کے کھر کے گرد گرد کا چمڑا، گوشت جو ناخن کے کے نیچے نکلے اور کہا جاتا ہے "هَذَا الْبَيْتُ أَشْعَرُ مِنْ هَذَا" یہ شعر اس سے اچھا ہے۔

الشعراء: الأشعر: کا مؤنث۔ پوسٹین۔ جانوروں پر بیٹھے والی مٹی لوگوں کی کثرت اور بھیڑ۔ ایک قسم کا آرڈر۔ ایک شور قسم کا درخت۔ ازض شعراء: بہت درختوں والی زمین۔ زغال شعراء: مٹی نامی گھاس اگانے والا ریگستان۔

الشعراء من الدواهي: سخت مصیبتیں۔ ج شعر۔

الشاعیر: قاف۔ شعر کہنے والا۔ ج شعراء مؤنث شاعيرة: ج شواعیر و شاعرات۔ شعر شاعیر: عمدہ شعر۔

الشعوری: ایک ستارہ کا نام جو سخت گرمی میں طلوع ہوتا ہے۔

الشعورور: گھٹیادرجہ کا شاعر۔ سب سے بہترین درجہ کے شاعر کو خندیلید اور اس کے بعد شاعر اس کے بعد شعور اور اس سے بھی کم درجے والے کو شعورور کہتے ہیں۔ اس کے بعد صرف ایک ہی درجہ ہے جو متشاعر کہلاتا ہے۔ الشعورور: چھوٹی گٹری۔ ج شعاریو واحد (شعورورة)

الشعور: علامت۔ درخت کے نیچے سایہ لینے کی جگہ۔ رسوم حج کے ادا کرنے کی جگہ۔ ج متشاعر: المتشاعر: حواس۔

شعشع: الشراب: پانی ملانا..... الشئی:

بعض کو بعض سے ملانا۔ شعشعت الشمس: آفتاب کی روشنی پھیلانا..... الضوء: روشنی پھیلانا۔ شعشع علیہم الخیل: سواروں سے حملہ کرنا۔

تشعشع: الشهر: مہینے کے تھوڑے دن باقی رہتا۔

الشعشع والشعشع والشعشع والشعشع والشعشع والشعشع: الشب: خولصورت زیرک۔ شب (..... والشعشع) من الظل: ہلکا سایہ۔

شعفه (ف) شعفا: الحب: محبت کا دل پر غالب ہونا..... ہ بالقطران: قطران ملنا..... الشئی الشئی: غالب ہونا۔

شعف (س) شعفا: بفلان وبغبت فلان: شیفتہ و فریفتہ ہونا..... الساقفة: اونٹنی کو شعفت کی بیماری ہونا (دیکھو لفظ شعف) صفت (شعفاء)

شعف: بفلان: کسی کی محبت میں دیوانہ ہونا۔ الشعف: مصل۔ کو بان کی چوٹی۔ ایک بیماری جو اونٹنی کو لاحق ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے بال جھڑ جاتے ہیں۔

الشعفة: اسم مہرۃ۔ بارش کی ایک بوند۔ ہلکی بارش جو زمین کو تر کر دے۔

الشعفة: پہاڑ کی چوٹی۔ سر کے بالوں کی لٹ۔ الشعفة من القلب: دل کا سرا جو شہد رگ کے ساتھ لڑکا ہوا ہے و شعفة کل شیء: ہر چیز کی چوٹی۔ ج شعف و شعوف و شعاف و شعفات۔

الشعاف: محبت کی دیوانگی۔ شیفگی۔ فریفتگی۔ الشعاف: شیفگی و فریفتگی۔

المشعوف: محبت میں دیوانہ و شیفتہ۔ شعَل (ف) شعلاً: النار: آگ بھڑکانا..... الاضمر: غمور کرنا۔

شعل (س) شعلاً و اشعل: القرس: گھوڑے کی دم یا پیشانی میں سفید داغ ہونا۔ صفت (شاعیل و شعیل و اشعل)

شعل: النار: آگ بھڑکانا۔

أشعل: النار: آگ بھڑکانا۔ غضبناک کرنا۔ غصه دلانا..... الحجمع: متفرق کرنا..... الخیل فی الغازة: سواروں کو چاروں طرف پھیلا دینا..... السقی: اچھی طرح سیراب کرنا۔ أشعلت القربة: منکب کا متفرق ہونا..... الطغنة: جگہ جگہ خون پینا..... العین: زیادہ آنسوؤں والی ہونا۔

أشعل إشعالاتاً و أشعل إشعالاتاً زامن الرجل: کھرے بال والا ہونا..... القرس: گھوڑے کی دم یا پیشانی پر سفید داغ ہونا۔

تشعلت و اشعلت: النار: آگ بھڑکانا۔ کہا جاتا ہے "أشعل الرأس شیباً" سر کے بالوں میں سفیدی پھیل گئی۔ و "أشعل فلان" وہ غصہ سے بھڑک اٹھا۔

الشعل: مصل۔ غلام شعل: سبک تیز خاطر لڑکا۔

الشعل: مصل۔ گھوڑے کی دم یا پیشانی کی سفیدی اور کبھی سر کے پچھلے حصہ پر ہوتی ہے۔

الشعلة: گھوڑے کی دم یا پیشانی کی سفیدی۔ آگ کی بھڑک۔ آگ کا شعل۔ ج شعل: الشعل: ہانڈی یا توڑے کے نیچے ستاروں کی مانند چمکتا ہوا جو دکھائی دیتا ہے۔

الشعلیة: بھڑکی ہوئی آگ۔ جلتی ہوئی تہی۔ ج شعل۔

الاشعل: من الناس: پیداہنشی آنکھوں میں سرخی والا۔

المشعل و المشعل: چھٹنا۔ چمڑے کا ایک برتن جس میں نمید بنایا کرتے تھے۔ ج مشاعیل و مشاعیل۔

المشعل و المشعلة: تبدیل۔ ج مشاعیل المشعلة: آگ بھڑکانے کی جگہ۔

الشعلول: آگ کی بھڑک۔ لوگوں کا گروہ۔ ج شعالیل: کہا جاتا ہے "ذہبوا شعالیل" وہ لوگ متفرق ہو ہو کر چلے گئے۔

شعم (ف) شعماً: الرجل: لوگوں کے درمیان صلح کرانا۔

تَشَعَّرَ: تيز دورنا..... فِي أَمْرِ قَبِيحٍ: انتہا کو پہنچنا۔ کہا جاتا ہے "تَفَرَّقُوا (شَعْرَ بَعْرَ) وشَعْرَ وِبَعْرَ" وہ لوگ ہر طرف متفرق ہو گئے اور کھڑے گئے۔ اِنَاءٌ (شَعْرَانُ) خالی برتن۔
 الشِّعَارُ: مہم۔ دھکار۔ جلا وطنی۔ بِنْرُ شِعَارًا وَاَبَارُ شِعَارًا: بہت پانی والے وسیع کنوئیں۔
 الشِّعَارَةُ: چمقراق۔
 الشِّعْفِيُّ: بدخلق۔
 المِشْعَرُ: وحش جانوروں کے بھگانے کا چھوٹا تیزہ۔
 الشُّوعَرُ: مضبوط خلقت۔
 الشُّوعْرَةُ: کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی زنجیل۔
 الشُّعْرُورُ: ایک قسم کی گھاس۔
 الشُّعْرَبِيَّةُ: ٹانگ میں ٹانگ لگا کر زمین پر چلنا۔
 شَعْرَ (ف) شَعْرًا: عليهم: زيادتی کرنا۔ دست درازی کرنا..... بِنْتَهُمْ: بھڑکانا۔ فساد ڈالنا۔
 الشُّعْرَبِيَّةُ: بمعنی الشُّعْرَبِيَّةُ۔
 تَشَعَّرَتِ: الرِّيحُ: ہوا کا بل کھاتے ہوئے چلنا۔
 شَعْفَعُ: الشَّيْءُ: داخل کرنا۔ لکھنا۔ اندر باہر کرنا۔ کہا جاتا ہے "شَعْفَعُ الطَّاعُنُ" جبکہ تیزہ مارنے والا تیزہ کو تیزہ زدہ کے جسم میں حرکت دے..... المُلْجَمُ: جانور کو سدھانے کے لئے لگام کو بلانا۔ فِي الْأَمْرِ: جلدی کرنا..... فِي الشَّرْبِ: کم کرنا..... فِي الْإِنَاءِ مَاءً او غَيْرَهُ: بغیر بھرنے کے ڈالنا..... البَنْزُ: گدلا کرنا اور کہا جاتا ہے "شَعْفَعُ شُرْبِي" اس نے میرے پینے کی چیز کو گدلا کر دیا۔
 شَعْفَعُ (ف) شَعْفًا: دل کے پردے کو زخمی کرنا..... فَوَاذِهِ: دل پر غالب ہونا..... لِبَيْتِ: سبزی نکل آنا۔
 شَعْفَعُ (س) شَعْفًا وِشَعْفًا: بہ فریفت ہوتا۔ شَعْفَعُ حُبِّهِ: محبت کا دل کے پردے میں پہنچنا۔

شَاعِبُهُ: جھگڑا کرنا۔
 تَشَاعَبَ: الرِّجْلُ: نا فرمانی کرنا۔ کہا جاتا ہے "طَلَبْتُ مِنْهُ كَذَا فَتَشَاعَبَ" میں نے اس سے فلاں چیز طلب کی وہ دینے سے باز رہا۔
 الشُّعْبُ والشُّعْبُ: مہم۔ شروع و غوغا۔
 الشُّعُوبُ: فساد انگیز۔ جھگڑا لو۔
 تَشَعَّرَتِ: الرِّيحُ: ہوا کا بل کھاتے ہوئے چلنا۔
 الشُّعْبِيُّ: کیدر۔
 شَعْرَتُ (ن) شَعْرًا: الأَرْضُ: بغیر محافظہ و نگران کے ہونا۔ صفت (شَاعِرَةٌ).....
 الرِّجْلُ: دور ہونا..... السُّعْرُ: بھاؤ گھٹنا.....
 النَّاسُ: لوگوں کا متفرق ہونا۔
 شَعْرَةُ (ن) شَعْرًا وِشَعْرًا: عَن بَلَدِهِ: جلا وطن کرنا۔
 شَعْرَ (ف) شَعْرًا: الكَلْبُ: کتے کا ایک ٹانگ اٹھا کر پیشاپ کرنا..... النَّاقَةُ: اونٹنی کا ٹانگ اٹھا کر بچہ کو مارنا۔
 شَاعِرَةٌ مُشَاعِرَةٌ وِشَعْرًا: کسی کے ساتھ اپنی بہن یا بیٹی کا اس شرط پر نکاح کرنا کہ وہ بھی اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح بغیر مہر کے اس سے کر دے..... الرِّجْلَانِ عَلَيْهِ: جوم کرنا۔ حملہ کرنا۔
 أَشَعَرَ: المنهَلُ: چشمہ کا راستہ سے دور ہونا۔
 الرِّقْفَةُ: ساتھیوں کا راستہ سے جدا ہونا۔
 الحِسَابُ عَلَيْهِ: کثرت اور پھیلاؤ کی وجہ سے ناقابل ضبط ہونا۔
 اشْتَعَرَ: الحِسَابُ عَلَيْهِ: خلط ملط ہونے اور پیچیدہ ہونے کی وجہ سے ناقابل ضبط ہونا۔
 الإمْرُ: بڑا اور وسیع ہونا۔ خلط ملط ہونا۔
 عَلَيْهِ: دست درازی کرنا۔ فخر کرنا.....
 الحَوْرُبُ بَيْنَ الْقَوْمَيْنِ: وسیع پیمانہ پر اور سخت جنگ ہونا۔ فِي القَلَاةِ: بیابان میں دور تک جانا۔

أشْفَنَ: غلڈوہ: دشمن کی پیشانی کے بال پکڑنا۔
 إِشْعَانٌ وِإشْعَنٌ: شَعْرَةٌ: چمک جانا اور غبار آلود ہونا۔
 الشُّعْبِنُ: خشک ہونے کے بعد جو گھاس یا پتے گر جائیں۔ شَعْرٌ (مَشْعُونٌ) پراگندہ بال۔
 الشُّعَائِينُ: عیسائیوں کا ایک قبیلہ (دیکھو لفظ شعائین)
 رَجُلٌ (مُشْعَانٌ) الرِّاسِ: پراگندہ اور کھڑے بالوں والا مرد۔
 شَعْبٌ: الكِبْشُ: سیدھے نکلنے کے بعد کان کی طرف مڑے ہوئے بیٹلوں والا ہونا۔ صفت (مُشْعَبٌ وِ مُشْعِبٌ)
 شَعَائِشَعُو شَعُوًا: الشُّعْرُ: بالوں کا کھڑا ہونا۔
 شَعِيثٌ تَشَعَّى شَعًا: الغَارَةُ: چاروں طرف لوٹ پڑنا۔ صفت (شَعُوَاءُ)
 أَشَعَى: به: اجتماع کرنا..... القَوْمُ الغَارَةُ: چاروں طرف لوٹ ڈالنا۔
 غَارَةُ (شَعُوَاءُ) پھیلی ہوئی لوٹ۔ شَيْخَرَةٌ شَعُوَاءُ: پھیلی ہوئی ٹہنیوں والا درخت۔
 الشَّاعِي: قا۔ دور۔ متفرق۔ مشترک حصہ۔
 مَوْتٌ شَاعِيَةٌ ج شَوَاعٍ: کہا جاتا ہے "جَاءَتْ بِنْتُ الخَيْلِ شَوَاعِي وِشَوَاعٍ" گھوڑے متفرق آئے۔
 الشُّعَى: پراگندہ بالوں کا گچھا۔ واحد (شَعْوَةٌ)
 شَعْوَذٌ شَعْوَذَةٌ: شہدہ بازی کرنا۔ نظر بندی کرنا۔ بازی گری کرنا۔ صفت (مُشَعْوَذٌ وِ مُشَعْوَذٌ)
 شَعْبٌ (ف) وِشَعْبٌ (س) وِشَعْبًا وِشَعْبًا وِشَعْبٌ: القَوْمُ وِبِهِمْ وِعَلَيْهِمْ: فساد برپا کرنا۔ تباہی ڈالنا۔ صفت (شَعْبٌ وِشَعْبٌ وِشَعَابٌ وِ مَشَعْبٌ وِ مَشَاعِبٌ وِ ذُو مَشَاعِبٍ)
 شَعْبٌ (ف) شَعْبًا: عَنِ الطَّرِيقِ: ہٹنا۔ پھر جانا۔

تَشَفَّفَ: النَّاسُ: وَسُورَةُ اِلْ كَرِ بِرَا كُنْدَه كَرْنَا
 - الشَّغْفُ: مَص - دَل كَا پَرْدَه -
 الشَّغْفُ: مَص - اِتِهَانِي مَحْت - شَغْفُ
 الْقَلْبُ: دَل كَا پَرْدَه -
 الشَّغَافُ: دَل كَا پَرْدَه - سَوِيْدَاء: دَل - ج
 شَغْفٌ وَاشْغَفَةٌ.
 الشَّغَافُ وَالشَّغَافُ: اِيك بِيَارِي جُوْدَانِيں
 طَرَف كِي پَسِيَلِيں كِي نِيچِي هُوْتِي هِي -
 الشَّغْفُورُ: خُوْبصُورَت غُورَت -
 شَغْلُهُ (ف) شَغْلًا وَشَغْلًا وَاشْغَلَهُ: بِكَذَا:
 مَشْغُولُ كَرْنَا..... عَنْهُ: نَافِل كَرْنَا - شَغِلَ عَنْهُ
 بِكَذَا: مَشْغُول رِهْتَا - كَسِي مِيں لُكَار پِنَا اُو رَا سِي
 سِي كِهَا جَاتَا هِي "مَا اشْغَلَهُ" يَعْنِي وَه وَه كَس قَدْر
 مَشْغُول هِي اُو رِيه شَاذ هِي اِس لِيئِي كِه فِعْل
 مَجْهُول سِي صِيغَتِ عَجَب نِيں بِنَا يَا جَاتَا -
 شَغْلَةٌ: مَشْغُول كَرْنَا (تَسْمِيْدِي مَبَالِغ كِي لِيئِي
 هِي -)
 تَشَغَّلَ وَتَشَاغَلَ وَاشْتَغَلَ: بِكَذَا: مَشْغُول
 هُوْنَا - اشْتَغَلَ قَلْبُهُ: جِتَلَايِي اَفْكَار هُو كَر
 پَرِي شَان هُوْنَا - اشْتَغَلَ فِيهِ السَّمُّ: زَهْر كَا اَثْر
 كَرْنَا..... السِّدْوَاءُ فِيهِ: دُرُو كَا مَفِيْد هُوْنَا -
 وَتَشَاغَلَ عَنْهُ: نَافِل هُوْنَا -
 الشُّغْلُ وَالشُّغْلُ وَالشُّغْلُ: مَصْرُوفِيْت -
 مَشْغُولِيْت - ج اشْغَالٌ وَشُغُولٌ.
 الشُّغْلُ: پَرِي - مَجْرَؤٌ -
 الشَّاغِلُ: نَاف - مَبَالِغ كِي صُورَت مِيں "اَنَا فِي
 شُغْلٍ شَاغِلٌ" كِهَا جَاتَا هِي -
 الشُّغْلَةُ: اِسْم مَرَّة - كَهْلِيَان - غَلْد كَا ذَهِيْر - ج
 شُغْلٌ.
 الشُّغْلُ: كَام مِيں لُكَار هُوَا - مَصْرُوف -
 الشُّغَالُ: بَهْت كَام دَا لَا -
 الاَشْغُوْلَةُ وَالمَشْغُوْلَةُ: كَام - مَشْغَلَه -
 المَشْغُوْلُ: مَبْع - مَجْرَاهُوَا - كِهَا جَاتَا هِي
 "مَكَانٌ مَشْغُوْلٌ" مَجْرِي هُو تِي جُكَلَه - ذَاو
 مَشْغُوْلَةُ: آوَا كِهْر - جَارِيَةٌ مَشْغُوْلَةُ: شُوْبَر
 وَالِي - مَالٌ مَشْغُوْلٌ: تِجَارَت وَكَار دُو بَار مِيں
 لُكَار هُوَا لَا -

الشَّغْمُ: اِلَاكِي - بَهْت حَرِيص -
 الشُّغْمُومُ وَالشُّغْمِيْمُ: خُوْبصُورَت لَمْبَا -
 الشُّغْنَةُ: تَرْتِيْبِي - ج شُغْنٌ.
 الشُّغْبُ وَالشُّغْبُوْبُ: نَازِك وَتَرْتِيْبِي -
 شَغَتْ تَشْغُوْ شُغُوْ اَوْ شَغِيْت تَشْغِي شُغَا.
 البَسْنُ: اِيك دَانَت كَا دُورِي دَانَتُوں سِي
 بَرَهْنَا - نَا هُوَا رِهْتَا - دَانَت كِي صَحْت -
 شَاغِيَةٌ: ج شَوَاعٌ: اُو رَا يِيئِي دَانَت وَالِي كُو
 (اَشْغِي) اُو رَا مَوْنُث كِي لِيئِي (شُغُوْء
 وَشُغِيَاء) ج شُغُوْ.
 اَشْغِي اِشْغَاءً: الْقَوْمُ بِهِ: لُوْگُوں كِي مَخَالِفَت
 كَرْنَا..... قُلَانٌ رَايَةٌ: پَرِي شَان كَرْنَا -
 الشُّغُوْءُ: عَقَاب -
 شَفَّ (مَص) شُفُوْفًا وَشُفِيْفًا وَشَفَفًا.
 الشُّفِيُّ: اِتَا بَارِيك هُوْنَا كِه دُورِي طَرَف كِي
 چِيْر نَظَر آئِي - صَحْت (شُفِيْفٌ وَشُفَافٌ)
 عَنْهُ النَّوْبُ: كِيْرِي سِي كَا چُھُوْنَا هُوْنَا - تَنَك هُوْنَا
 (..... شُفُوْفًا) الجِسْمُ: بَدَن كَا دَبْلَا هُوْنَا
 (..... شُفَا) الشُّيْ: زِيَادَه هُوْنَا - كِهَا جَاتَا هِي
 "شَفَفْتُ عَلَيْهِ" تَم نِي اِس پَر زِيَادَه كِيَا - كَم
 هُوْنَا - گُھَنَّا "هَذَا دِرْهَمٌ يَشْفُ قَلِيْلًا" يِي
 دُرْهَم كِيچ كَم هِي - حَرَكَت كَرْنَا -
 لِيئِي الْاَمْرُ: قَا تَم رِهْتَا - هِيْمَش رِهْتَا
 (..... شُفِيْفًا) فَمُ قُلَانٌ: دَانَتُوں اُو رَا سُوْرُوں
 مِيں سُرُوِي كِي وَجِه سِي دُرُو هُوْنَا -
 شُفَّهُ (ن) شُفًا وَشُفُوْفًا وَشَفَفَهُ: الْمَرْضُ
 اُو الِهْمُ: كَزُوْر كَرْنَا - دَبْلَا كَرْنَا - شَفَّ السَّمَاءُ:
 سَب پَانِي پِي لِيْنَا -
 اَشْفَهُ: عَلِي قُلَانٌ: فُضِيْلَت دِيْنَا - اَشْفُ
 الْقَمُ: مَزَا كَا دُوْرُوْر هُوْنَا - اَشْفُ عَلِي قُلَانٌ:
 سَبِيْقَت لِي جَاتَا - بَرَهْنَا..... الدِّيْرْهَمُ: زِيَادَه
 كَرْنَا يَا كَم كَرْنَا -
 اِشْفَفْتُ وَتَشَافٌ: مَنَافِي الْاِنَاءِ: بَرْتَن سِي
 سَارَا پَانِي پِي جَاتَا اُو رَا كِهَا جَاتَا - "اِشْفُ الْبَيْضُ
 الْحَرَامُ" اُوْنَت نِي سَارِي سَنَك كُو گُھِيْر لِيَا -
 اِسْتَشَفَّ: لِيئِي البَسْتُرُ: پَرْدِي كِي پِيچِي كِي چِيْر
 نَظَر آئَا..... النَّوْبُ: كِيْرِي سِي كِي حُيُوب كُو

دِيكھِنِي كِي لِيئِي رُو شِي مِيں پِيچِيَا نَا..... الشُّيْ:
 دِيكھِنَا اُو رَا مَعْلُوم كَرْنَا..... الْكِتَابُ: غُور كَرْنَا -
 هِي پَارِي كِي چِيْر دِيكھِنَا..... مَنَافِي الْاِنَاءِ:
 بَرْتَن سِي سَب پِي لِيْنَا..... پُوْرِي پُوْرِي رُو شِي
 كَرْنَا -
 فِي تِجَارَتِيَه: تِجَارَت مِيں فَا نَدَه اِشْتَا نَا -
 الشُّفُّ وَالشُّفُّ: كِهْرَا يَا بَارِيك پَرْدَه - كِهَا
 جَاتَا هِي "نَوْبٌ شَفٌّ وَشَفٌّ" بَارِيك
 كِيْرَا - هُوَا - زِيَادَتِي - نَقْصَان - اِيك قِسْم كِي
 بَد بُوْدَار پَنَسِي - ج شُفُوْفٌ. الشُّفُّ: تَهْوِيْرِي
 چِيْر -
 الشُّفِيْفُ: مَص - آقَاب كِي سَحْت گَرِي -
 سُرُوِي كِي شَدَت - شُخْتِي هُوَا - ج بَشِيفَا
 قُوْبٌ شُفِيْفٌ: بَارِيك كِيْرَا -
 الشُّفُّ: مَص - كَم - بَلَاكِيْن - بَد جَالِي -
 الشُّفَانُ: بَارَش كِي سَا تَمَحُّ خُخْتِي هُوَا -
 الشُّفَافَةُ: بَرْتَن كَا بَقِيئِي پَانِي - شُفَافَةُ النَّهَارِ:
 دِن كَا بَقِيئِي حَصْر - كِهَا جَاتَا هِي "قُلَانٌ اَشْفُ
 مِّنْ قُلَانٍ" فِلَاں فِلَاں سِي كِيچِي تَهْوِيْرَا سَا بُوْرَا
 هِي -
 المَشْشُوفُ: بَد بُوْدَار پَنَسِيُوں وَالَا -
 شَفَّتْ وَاشْفَتْ: الْقَوْمُ: تَتَر بَرْتَن هُوْنَا - پَرَا كُنْدَه
 هُوْنَا - اِشْفَرُ الْغُوْدُ: ثُوْنَا..... البِرَاجُ:
 زِيَادَه چُوْرِي مَتِي كَا هُوْنَا -
 شَفْنٌ شَفْنَةٌ: جَمَاع كَرْنَا -
 شَفِرٌ (س) شَفَارَةٌ: گُھَنَّا - كَم هُوْنَا -
 شَفَرٌ: الْمَالُ: كَم هُوْنَا..... الشَّمْسُ: آقَاب
 كَا غُرُوب كِي قَرِيْب هُوْنَا..... عَلِي الْاَمْرِ:
 مَتُوْبِه هُوْنَا..... الشُّيْ: جُز سِي كِهِيْرَا -
 الشُّفْرُ وَالشُّفْرُ: ج اشْفَارُ وَ(الشُّفَيْرُ) پَلَك
 كِي جُز - ہر چِيْر كَا كُنَارَه..... مِّنْ الوَادِي:
 وَادِي كَا بَالَا تِي كُنَارَه - كِهَا جَاتَا هِي "مَنَافِي
 الذَّارِ شُفْرٌ وَشُفْرٌ وَشُفْرَةٌ" گُھَر مِيں كُو تِي
 نِيں -
 الشُّفْرَةُ: بُوْرِي چُوْرِي چِيْرِي - تَلُوَار كِي دَحَار -
 نِيْرِي سِي كِي پَهْل كَا پَهْلُو - مُوچِي كِي رَا پَنِي - ج
 شُفْرٌ وَشُفَارٌ وَشُفْرَاتٌ: الشُّفْرَةُ: نُو كَر -

خادم۔ عیش (مُشْفِقٌ) تنگ زندگی۔

المشْفِقُ: شدت۔ روک۔ زمین یا ریگستان کا ٹکڑا۔ ہونٹ۔ اونٹ کے ہونٹ کے لئے خاص طور پر مستعمل ہے۔ جِ مَشَافِرٍ۔

المشْفَاجُ: میوہ وغیرہ رکھ کر محفل میں لانے کی تھالی۔

شَفْرَةٌ (ض) شَفْرًا: آلات مارنا۔ ٹھوکر مارنا۔

شَفَّشَفَ الرَّجُلُ: کانپنا۔ بدخلق ہونا۔

صفت (مُشْفِشِفٌ وَمُشْفَشِفٌ) بہ:

خَطْمٌ مَلَطٌ ہونا..... الدَّوَاءُ عَلَيَّ الْجُرْحُ: زخم

پر دوا چھڑکنا..... اللَّهُمَّ فَلَانًا: ڈیلا کرنا.....

الصَّقِيعُ النَّبَاتُ: پالے کا نباتات کو جلا دینا۔

خُتَّكَ كَرُونًا..... الخَوْرُ وَالبَرْدُ الشَّيْ: خٹک

کرنا..... عَلَيْهِ ذُرَانًا۔

تَشَفَّشَفَ النَّبَاتُ: خٹک ہونے لگانا۔

الشَّفَشَافُ: اولوں والی بارش۔ عوام فَنَفَافٍ:

کہتے ہیں۔ سُخْنَدِي ہوا۔ ثُبُوتٌ شَفَّشَافٌ:

چھدرائینا ہوا کپڑا۔

شَفَّعَ (ف) شَفَّعًا. الشَّيْ: چوڑا کرنا۔ دہرا

کرنا۔ کہا جاتا ہے "حَسَانٌ وَنَسْرٌ أَفَشَفَعَهُ

بِأَخُو" وہ طاق تھا اس نے دوسرا ملا کر جفت

کر دیا..... جَسَارَةٌ: پڑوسی کو حق شتہ دینا.....

النَّافِقَةُ: ایک بچہ ہوتے ہوئے حاملہ ہونا۔ تم

کہتے ہو (شَفَّعَ) لِسَى الْأَشْخَاصِ: نظر کی

کمزوری سے ایک چیز دو دکھائی دینا۔ آکھ

کی صفت (شَافِعَةٌ)

شَفَّعَ (ف) شَفَّاعَةً. لِفُلَانٍ أَوْ فِيهِ إِلَى زَيْدٍ:

سفارش کرنا۔ شَفَّعَ عَلَيْهِ بِالْعَدَاوَةِ: کسی کے

خلاف دوسرے کی مدد کرنا۔ کہا جاتا ہے

"فُلَانٌ يُعَادِيَنِي وَلَهُ شَافِعٌ" فلاں شخص مجھ

سے دشمنی کرتا ہے اور اس کے لئے میری

عداوت میں ایک شخص مددگار ہے..... لِفُلَانٍ

فِي الْمَطْلَبِ: کسی کے لئے کوشش کرنا۔

شَفَّعَ الشَّيْ: جفت بنانا۔ شَفَّعَنِي فِي فُلَانٍ:

سفارش قبول کرنا۔

سفارش کرنے کو کہنا۔

اسْتَشْفَعُ. زَيْدٌ إِلَى عُمُرٍ: سفارش کرنے کی درخواست کرنا..... لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ: مدد طلب کرنا۔

الشَّفَّعُ: مصل۔ جفت۔ عدد۔ کہا جاتا ہے

"أَشْفَعُ هُوَ أَمُّ وَتَرٌ" کیا وہ جفت ہے یا

طاق۔ جِ أَشْفَاعٍ وَشَفَاعٍ.

الشَّفَّعَةُ. عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: زمین یا مکان میں

مساہنگی کی وجہ سے حق خرید۔ دیوا لگی۔ آکھ

..... مِنَ الصُّخَى: چاشت کے وقت دو

رکتیں۔ جِ شَفَّعٍ.

الشَّافِعُ: فَا-نَافِقَةٌ. شَافِعٌ: بیچ والی حاملہ

اَوْثَمِي. عَيْنٌ شَافِعَةٌ: کمزوری سے ایک کو دو

دیکھنے والی آکھ۔ نَافِقَةٌ (شَفْوَعٌ) ایک دفعہ

کے دو حصے میں دو برتن بھرنے والی اَوْثَمِي۔

الشَّفِيعُ: سفارش کرنے والا۔ حق شفعہ والا۔

جِ شَفَّعَاءِ. الشَّفِيعُ مِنَ الْعَدُوِّ: جفت۔

الاشْفَعُ: لیا۔

المُشْفَعُ: وہ شخص جس کی سفارش مقبول ہو۔

المُشْفَعُ: سفارش قبول کرنے والا۔

المُشْفُوعُ: پاگل دیوانہ۔ امْرَأَةٌ مُشْفُوعَةٌ:

نظر بد لگی ہوئی عورت۔

شَفِيقٌ (س) شَفِيقًا. عَلَيْهِ: مہربان ہونا۔ خیر

خواہی و اصلاح کا خواہش مند ہونا۔ صفت

"شَفِيقٌ وَشَفُوقٌ وَشَفِيقٌ شَفِيقٌ مِنَ الْأَمْرِ:

خوف کرنا۔ لَاحِجٌ کرنا..... عَلَيْهِ الشَّيْ: بخل

کرنا۔

شَفِيقَةٌ: مہربان بنانا۔ شَفِيقَ الشَّيْ: کم کرنا

..... التَّوْبُ: کپڑا خراب بنانا۔

أَشْفَقَ. الشَّيْ: کم کرنا..... عَلَيْهِ مِنْهُ: کسی

سے چونکا رہنا۔ خوف کرنا۔ لَاحِجٌ کرنا.....

عَلَى الصَّغِيرِ: مہربان ہونا..... الرَّجُلُ: شفق

کا وقت پانا..... السَّرِيحُ: ہوا کا تیز ہونا اور

خاک اُڑانا۔

الشَّفِيقُ: مصل۔ غروب آفتاب کے بعد افق

آسمان کی سرفی۔ مہربانی۔ روی چیزیں

دن۔ خوف۔ جانب۔ ثُبُوتٌ شَفِيقٌ: کمزور

کپڑا۔ جِ اشْفَاقٍ.

الشَّفِيقَةُ: مہربانی۔ رحمت۔ خوف کے ساتھ مہربانی۔ کہا جاتا ہے "أَتَّخِذُنِي مِنْهُ شَفِيقَةً" اس پر مجھے ترس آیا۔ "وَلِيٌّ عَلَيْهِ شَفِيقَةٌ" مجھے اس پر ترس ہے۔

المُشْفَلَةُ: ادھم۔ جِ مَشَافِلٍ.

شَفَّنَ (ض) وَشَفَّنَ (س) شَفْوَانًا. الرَّجُلُ

وَالسِّي الرَّجُلُ: ترجیحی نظر سے دیکھنا یا بنظر

اعراض دیکھنا۔ صفت (شَافِنٌ وَشَفْوَانٌ)

الشَّفْنُ وَالشَّفْنُ: زبرک دوانا۔ الشَّفْنُ:

انتظار۔ میراث کا منتظر۔

الشَّفْوَانُ: بہت غیرت مند جس کی نگاہ شدت

حذر کی وجہ سے نظر کرنے سے نہ تھکے۔ جِ شَفْنٌ.

الشَّفْتَرِيُّ وَالشَّفْتَرِيُّ: متفرق۔

شَفَّهَ (ف) شَفَّهًا. فَلَانًا: ہونٹ پر مارنا۔

اصرار کر کے سوال کرنا اور سب کچھ خرچ

کرا دینا..... الإِنَاءُ: سب پی کر خالی کر دینا۔

"كَذَابَتِ الْعِيَالُ تَشْفَهُ مَالِي" قریب ہے کہ

میرے اہل و عیال میرے مال کو ختم کر دیں

..... هُوَ عَنِ الْأَمْرِ: غافل کر دینا۔

شَفَّهَ. زَيْدٌ: بہت سائلین کا ہونا..... الشَّيْ:

بہت طالبین کا ہونا..... الطَّعَامُ: بہت کھانے

والوں کا ہونا۔ صفت (مَشْفُوعَةٌ)

شَافِعُهُ شَفَّاهَا وَشَافِعُهُ: رودر رو گفتگو کرنا

..... الشَّيْ: قریب ہونا۔

الشَّفَّةُ وَالشَّفَّةُ: مِنَ الْإِنْسَانِ: ہونٹ۔ جِ

بِشَفَاهِ وَشَفَّهَاتٍ اور نبت کے لئے (شَفْفَى

وَشَفَّهَى وَشَفَّوَى) اور تصغیر (شَفْفِيَّةٌ) کہا جاتا

ہے "هُوَ خَفِيفُ الشَّفَّةِ" وہ سوال کرنے

میں بہت اصرار کرنے والا یا کم سوال کرنے

والا ہے۔ (شد) "لَسْتُ فِي النَّاسِ شَفَّةً

حَسَنَةً" اس کی لوگوں میں اچھی شہرت

ہے۔ "وَمَا أَحْسَنَ شَفَّةَ النَّاسِ عَلَيْكَ"

تمہارے متعلق لوگوں کی تعریف کس قدر

اچھی ہے۔ و "مَا كَلَّمْتُهُ بِنَبْتِ شَفَّةٍ" میں

نے اس سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔

شَفَّةُ الشَّيْءِ كَالدَّلْوِ: ڈول جیسی چیز کا کنارہ۔

الشَّافِيهِ: پیاسا۔

الشَّفَاقِيهِ وَالْأَشْفَهُ: بڑے ہونٹوں والا۔

الْحُرُوفُ الشَّفِيَّةُ: ہونٹوں سے نکلنے والے حروف اور وہ ب ف م ہیں۔

الْمَشْفُوهُ: مَشَّعَ مَاءً مَشْفُوهً: ایسا پانی جس پر بہت پینے والے آتے ہوں اور کہا جاتا ہے "فَلَانٌ مَشْفُوهٌ عَنَّا" یعنی فلاں ہم سے غافل ہے اس کے پاس کثرت سے لوگ آتے ہیں۔

و"هُوَ مَشْفُوهٌ الْمَوَارِدِ" وہ بڑا مہمان نواز اور بہت داد و بخش والا ہے۔

شَفَا يَشْفُو شَفْوًا: الِهْلَالُ: چاند کا طلوع ہونا۔ الشَّخْصُ: ظاہر ہونا۔ الشَّمْسُ: آفتاب کا غروب کے قریب ہونا۔

الشَّفَا: نئے چاند کا تیسرے حصہ جو ابھی غروب نہ ہوا ہو۔ ہر چیز کا حد و کنارہ۔ شَتِيءٌ شَفْوَانٌ: ج

أَشْفَاءٌ آدنی کے لئے موت کے وقت اور چاند کے لئے چھپنے کے وقت اور آفتاب کے لئے غروب ہونے کے وقت کہا جاتا ہے "مَا بَقِيَ مِنْهُ إِلَّا شَفَا" یعنی صرف تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے۔

الْأَشْفَى: جس کے دونوں ہونٹ ملتے نہ ہوں۔

شَفِي يَشْفِي شَفَاءً: اللَّهُ فَلَانًا مِنَ الْمَرَضِ: تندرست کرنا۔ صحت یاب کرنا۔ فَلَانٌ فَلَانًا: کسی کے لئے شفا مانگنا۔ الشَّمْسُ: آفتاب کا غروب کے قریب ہونا۔ (.....)

وَشَفِي (س) شَفِي الْهَلَالُ: نئے چاند کا غروب ہونا۔

شَفِي الْمَرِيضُ: صحت پانا۔ تندرست ہونا۔

أَشْفَى إِشْفَاءً: فَلَانًا: شَفَا مَنَّا..... عَلَيْهِ:

کنارے پر آگنا اور اسی سے ہے "أَشْفَى الْمَرِيضُ عَلَى الْمَوْتِ" مریض موت کے کنارہ پر آگنا..... الْعَلِيلُ: حصول صحت سے باز رہنا (ہمزہ سلب کے لئے)

..... الْمُسَافِرُ: آخری رات کی چاندنی میں چلنا..... الْمَرِيضُ: مفید و دہانتا۔ تم کہتے ہو "الشَّفِي" یعنی مجھے کوئی ایسی چیز دو جس سے صحت حاصل ہو۔ أَشْفَاءُ الشَّيْءِ: مفید چیز دینا۔ شفا حاصل کرانے والی چیز دینا۔

تَشْفَى: مِنْ غَيْظِهِ: غصے سے ٹھنڈا ہونا اور کہا جاتا ہے "تَشْفَى مِنْ فَلَانٍ" یعنی اس نے اپنے دشمن کو ایسی تکلیف پہنچائی کہ جس سے اس کا دل ٹھنڈا ہو گیا (.....) وَاشْتَفَى: بِكَذَا: شفا حاصل کرنا۔

الْمُسْتَشْفَى: ہسپتال (دواخانہ) اِسْتَشْفَى: بِهِ: شفا چاہنا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ يُسْتَشْفَى بِرَأْيِهِ" فلاں کی رائے سے شفا حاصل کی جاتی ہے..... الْمَرِيضُ مِنْ عِلَّتِهِ: صحت یاب ہونا۔

الشِّفَاءُ: مَصْرٌ: دوا۔ (مجاز ہے اس لئے کہ سب کا نام وہ رکھا گیا جو صیب کا تھا) جِ الشَّفِيَّةُ جِ أَشْفَابٍ: الشَّفَايِي: فَا: مِنَ الْأَدْوِيَةِ وَنَحْوِهَا: مفید دوا وغیرہ۔ الْجَوَابُ الشَّفَايِي: ایسا جواب جس میں پھر سوال کی ضرورت نہ ہو۔

الِاشْفَى: سُنَالِي: سُوْجَانُ أَشْفَابٍ: شَقَّ (ن) شَقَّازَ: الشَّيْءُ: پھاڑنا۔ جدا جدا کرنا۔ اور اسی سے ہے شَقَّ عَصَاءَ الْقَوْمِ" اس نے قوم کی جمیعت کو توڑ دیا۔" شَقَّ فَلَانٌ الْعَصَا" فلاں جماعت سے علیحدہ ہو گیا۔

شَقَّ (ن) شَقًّا وَمَشَقَّةً: الْأَمْرُ: دشوار ہونا..... غَلِي فَلَانٌ: مشقت میں ڈالنا..... الْبَسْرُفِيُّ: بَجَلٌ كَأَسْرَ آسَمَانَ تَكْ سِيدِغِي پھیلانا..... الْفَرَسُ: دُوْرُنِي فِي أَيْكِ جَانِبِ كُوْجَلْنَا شَقُّوْنَا) الْبَيْتُ: أَيْ كُنَّا..... نَابُ الْبَيْعِي: دانت لگانا..... شَقًّا) الصُّبْحُ: فجر طلوع ہونا۔

شَقَّقَ: الْحَطْبُ: لکڑی پھاڑنا۔ چیرنا..... الْكَلَامُ: بِرَجُلٍ كَرِهْنَا: شَقَّقَهُ شَقًّا وَمُشَاقَّةً: مخالفت کرنا۔ دشمنی

کرنے۔ تَشَقَّقَ: الْحَطْبُ: لکڑی کا پھٹنا۔ چرنا۔ الْفَرَسُ: گھوڑے کا دلہا ہونا اور کہا جاتا ہے "تَشَقَّقَتْ عَصَاهُمْ بِالْبَيْتِي" ان کا معاملہ تیز تر ہو گیا۔

تَشَاقَى: الْقَوْمُ: باہم مخالفت کرنا۔ باہم عداوت کرنا..... الرَّجُلَانُ: باہم خوب جھگڑا کرنا۔ تَشَاقَا لِيَا بَنَاهُمُ: ایک کا دوسرے کے کپڑوں کو پھاڑنا۔

إِنْشَقَّ: الشَّيْءُ: شَكَّافٌ: پڑنا..... الْأَمْرُ: پراگندہ و پریشان ہونا..... الْفَجْرُ: فجر طلوع ہونا۔ کہا جاتا ہے "إِنْشَقَّتْ عَصَاهُمْ" ان کا معاملہ تیز تر ہو گیا۔

إِنْشَقَّ: الشَّيْءُ: آدھا لینا..... الْكَلِمَةُ مِنْ الْكَلِمَةِ: مشتق کرنا جیسے الضَرْبُ: سے ضَرْبٌ..... الْفَرَسُ فِي عَذْوِهِ: دائیں بائیں جانا..... فِي الْكَلَامِ أَوْ الْخُصُومَةِ: ادھر ادھر ہٹ جانا..... الطَّرِيقُ فِي الْفَلَاةِ: بیابان میں راستہ طے کرنا۔

الشَّقُّ: مَصْرٌ: شَكَّافٌ: بَجْنٌ: صَحَّ بَجْنِي: ہوئی جگہ۔ مشقت۔ ہر چیز کا آدھا۔ جِ شَفْوَقٌ: الشَّقُّ: جَانِبٌ: کنارہ۔ انسان کی ایک جانب جس چیز کی جانب تمہاری نظر ہو۔ مشقت۔ سگ بھالی۔ ہر چیز کا آدھا۔ کہا جاتا ہے "الصَّالُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ شِقٌّ أَوْ شَقٌّ شَعْرِيَّةٌ" مال میرے اور تمہارے درمیان برابر برابر ہے۔

الشَّقَّةُ: كِبْرٌ: وغیرہ کی لمبی چٹ۔ پھاڑا ہوا ٹکڑا۔ چیز کا آدھا حصہ جبکہ پھاڑ لیا جائے۔ جِ شَقَّقَ وَشَقَّاقٌ: الشَّقَّةُ وَالشَّقَّةُ: دور کا سفر۔ مسافت جس کو مسافر طے کرے۔ راستہ جس کا طے کرنا چلنے والے کے لئے دشوار ہو۔ وہ جانب جہاں کا مسافر قصد کرے۔ مشقت۔ جِ شَقَّقَ: الشَّقِيْقِي: دو حصوں میں چھٹی ہوئی چیز کا آدھا حصہ۔ حَقَّقَ بَحَائِي: نظیر۔

الشَّقِيْقَةُ: حَقَّقِي: بہن۔ باغموں کے درمیان

شَقَّقَ: الْحَطْبُ: لکڑی کا پھٹنا۔ چرنا۔ الْفَرَسُ: گھوڑے کا دلہا ہونا اور کہا جاتا ہے "تَشَقَّقَتْ عَصَاهُمْ بِالْبَيْتِي" ان کا معاملہ تیز تر ہو گیا۔

تَشَاقَى: الْقَوْمُ: باہم مخالفت کرنا۔ باہم عداوت کرنا..... الرَّجُلَانُ: باہم خوب جھگڑا کرنا۔ تَشَاقَا لِيَا بَنَاهُمُ: ایک کا دوسرے کے کپڑوں کو پھاڑنا۔

إِنْشَقَّ: الشَّيْءُ: شَكَّافٌ: پڑنا..... الْأَمْرُ: پراگندہ و پریشان ہونا..... الْفَجْرُ: فجر طلوع ہونا۔ کہا جاتا ہے "إِنْشَقَّتْ عَصَاهُمْ" ان کا معاملہ تیز تر ہو گیا۔

إِنْشَقَّ: الشَّيْءُ: آدھا لینا..... الْكَلِمَةُ مِنْ الْكَلِمَةِ: مشتق کرنا جیسے الضَرْبُ: سے ضَرْبٌ..... الْفَرَسُ فِي عَذْوِهِ: دائیں بائیں جانا..... فِي الْكَلَامِ أَوْ الْخُصُومَةِ: ادھر ادھر ہٹ جانا..... الطَّرِيقُ فِي الْفَلَاةِ: بیابان میں راستہ طے کرنا۔

الشَّقُّ: مَصْرٌ: شَكَّافٌ: بَجْنٌ: صَحَّ بَجْنِي: ہوئی جگہ۔ مشقت۔ ہر چیز کا آدھا۔ جِ شَفْوَقٌ: الشَّقُّ: جَانِبٌ: کنارہ۔ انسان کی ایک جانب جس چیز کی جانب تمہاری نظر ہو۔ مشقت۔ سگ بھالی۔ ہر چیز کا آدھا۔ کہا جاتا ہے "الصَّالُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ شِقٌّ أَوْ شَقٌّ شَعْرِيَّةٌ" مال میرے اور تمہارے درمیان برابر برابر ہے۔

الشَّقَّةُ: كِبْرٌ: وغیرہ کی لمبی چٹ۔ پھاڑا ہوا ٹکڑا۔ چیز کا آدھا حصہ جبکہ پھاڑ لیا جائے۔ جِ شَقَّقَ وَشَقَّاقٌ: الشَّقَّةُ وَالشَّقَّةُ: دور کا سفر۔ مسافت جس کو مسافر طے کرے۔ راستہ جس کا طے کرنا چلنے والے کے لئے دشوار ہو۔ وہ جانب جہاں کا مسافر قصد کرے۔ مشقت۔ جِ شَقَّقَ: الشَّقِيْقِي: دو حصوں میں چھٹی ہوئی چیز کا آدھا حصہ۔ حَقَّقَ بَحَائِي: نظیر۔

الشَّقِيْقَةُ: حَقَّقِي: بہن۔ باغموں کے درمیان

شَقَّقَ: الْحَطْبُ: لکڑی کا پھٹنا۔ چرنا۔ الْفَرَسُ: گھوڑے کا دلہا ہونا اور کہا جاتا ہے "تَشَقَّقَتْ عَصَاهُمْ بِالْبَيْتِي" ان کا معاملہ تیز تر ہو گیا۔

تَشَاقَى: الْقَوْمُ: باہم مخالفت کرنا۔ باہم عداوت کرنا..... الرَّجُلَانُ: باہم خوب جھگڑا کرنا۔ تَشَاقَا لِيَا بَنَاهُمُ: ایک کا دوسرے کے کپڑوں کو پھاڑنا۔

إِنْشَقَّ: الشَّيْءُ: شَكَّافٌ: پڑنا..... الْأَمْرُ: پراگندہ و پریشان ہونا..... الْفَجْرُ: فجر طلوع ہونا۔ کہا جاتا ہے "إِنْشَقَّتْ عَصَاهُمْ" ان کا معاملہ تیز تر ہو گیا۔

إِنْشَقَّ: الشَّيْءُ: آدھا لینا..... الْكَلِمَةُ مِنْ الْكَلِمَةِ: مشتق کرنا جیسے الضَرْبُ: سے ضَرْبٌ..... الْفَرَسُ فِي عَذْوِهِ: دائیں بائیں جانا..... فِي الْكَلَامِ أَوْ الْخُصُومَةِ: ادھر ادھر ہٹ جانا..... الطَّرِيقُ فِي الْفَلَاةِ: بیابان میں راستہ طے کرنا۔

الشَّقُّ: مَصْرٌ: شَكَّافٌ: بَجْنٌ: صَحَّ بَجْنِي: ہوئی جگہ۔ مشقت۔ ہر چیز کا آدھا۔ جِ شَفْوَقٌ: الشَّقُّ: جَانِبٌ: کنارہ۔ انسان کی ایک جانب جس چیز کی جانب تمہاری نظر ہو۔ مشقت۔ سگ بھالی۔ ہر چیز کا آدھا۔ کہا جاتا ہے "الصَّالُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ شِقٌّ أَوْ شَقٌّ شَعْرِيَّةٌ" مال میرے اور تمہارے درمیان برابر برابر ہے۔

الشَّقَّةُ: كِبْرٌ: وغیرہ کی لمبی چٹ۔ پھاڑا ہوا ٹکڑا۔ چیز کا آدھا حصہ جبکہ پھاڑ لیا جائے۔ جِ شَقَّقَ وَشَقَّاقٌ: الشَّقَّةُ وَالشَّقَّةُ: دور کا سفر۔ مسافت جس کو مسافر طے کرے۔ راستہ جس کا طے کرنا چلنے والے کے لئے دشوار ہو۔ وہ جانب جہاں کا مسافر قصد کرے۔ مشقت۔ جِ شَقَّقَ: الشَّقِيْقِي: دو حصوں میں چھٹی ہوئی چیز کا آدھا حصہ۔ حَقَّقَ بَحَائِي: نظیر۔

الشَّقِيْقَةُ: حَقَّقِي: بہن۔ باغموں کے درمیان

شَقَّقَ: الْحَطْبُ: لکڑی کا پھٹنا۔ چرنا۔ الْفَرَسُ: گھوڑے کا دلہا ہونا اور کہا جاتا ہے "تَشَقَّقَتْ عَصَاهُمْ بِالْبَيْتِي" ان کا معاملہ تیز تر ہو گیا۔

تَشَاقَى: الْقَوْمُ: باہم مخالفت کرنا۔ باہم عداوت کرنا..... الرَّجُلَانُ: باہم خوب جھگڑا کرنا۔ تَشَاقَا لِيَا بَنَاهُمُ: ایک کا دوسرے کے کپڑوں کو پھاڑنا۔

إِنْشَقَّ: الشَّيْءُ: شَكَّافٌ: پڑنا..... الْأَمْرُ: پراگندہ و پریشان ہونا..... الْفَجْرُ: فجر طلوع ہونا۔ کہا جاتا ہے "إِنْشَقَّتْ عَصَاهُمْ" ان کا معاملہ تیز تر ہو گیا۔

إِنْشَقَّ: الشَّيْءُ: آدھا لینا..... الْكَلِمَةُ مِنْ الْكَلِمَةِ: مشتق کرنا جیسے الضَرْبُ: سے ضَرْبٌ..... الْفَرَسُ فِي عَذْوِهِ: دائیں بائیں جانا..... فِي الْكَلَامِ أَوْ الْخُصُومَةِ: ادھر ادھر ہٹ جانا..... الطَّرِيقُ فِي الْفَلَاةِ: بیابان میں راستہ طے کرنا۔

الشَّقُّ: مَصْرٌ: شَكَّافٌ: بَجْنٌ: صَحَّ بَجْنِي: ہوئی جگہ۔ مشقت۔ ہر چیز کا آدھا۔ جِ شَفْوَقٌ: الشَّقُّ: جَانِبٌ: کنارہ۔ انسان کی ایک جانب جس چیز کی جانب تمہاری نظر ہو۔ مشقت۔ سگ بھالی۔ ہر چیز کا آدھا۔ کہا جاتا ہے "الصَّالُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ شِقٌّ أَوْ شَقٌّ شَعْرِيَّةٌ" مال میرے اور تمہارے درمیان برابر برابر ہے۔

تخت زمین۔ بہت بارش..... مِنْ التَّسْرِقِ :
افق آسمان میں پھیلنے والی بجلی۔ آدھاسیسی کا
درد۔ ج شَقَائِقِ۔ شَقَائِقُ النُّعْمَانِ : گل
لالہ۔ واحد شَقِيفَةُ النُّعْمَانِ۔

الاشَّقَى مِنَ الخَيْلِ : دائیں یا بائیں دوڑنے
والا گھوڑا۔ فَرَسٌ اشَقُّ مِنَ السَّحَابِ : وسیع
نتھوں والا گھوڑا۔

المَشَقَّةُ وَالمِشَقَّةُ : دشواری۔ محنت۔ ج
مَشَاقٍ وَمَشَقَاتٍ۔

شَقًا (ف) شَقًا وَشَقْوًا ۱. النَّابُ : دانت
نکلنا..... شَعْرُ الرَّاسِ : مانگ نکلنا اور کنگھا
کرنا..... رَأْسُهُ سَرَّ بِهَا رَأْسًا..... فَلَتَاتُ : کسی کی
مانگ پر مارنا۔

المِشَقَا : مانگ۔
المِشَقَا وَالمِشَقَاةُ وَالمِشَقَاةُ : کنگھا۔

شَقَحَ (ك) شَقَحًا : قہقہ ہونا۔ صفت
(شَقِيحٌ)

شَقَحَ (ف) شَقَحًا : الشَّيْءُ : توڑنا
..... الحَوْرَةُ : گرمی نکلنا..... ه اللہ : قہقہ بنانا
..... الكَلْبُ : کتے کا پیشاب کرنے کے لئے
ناگ اٹھانا۔

شَقَّحَهُ مَشَاقِحَةً : باہم گالی گلوچ کرنا۔

أَشَقَّحَهُ : دور کرنا (أَشَقَّحَ وَشَقَّحَ) البُسْرُ :
رنگ پڑنا..... النُّخْلُ : درخت خرما پر گھجور کا
گدر ہونا۔ کہا جاتا ہے (شَقَّحَا وَشَقَّحَا) لَهُ :
یعنی اس کے لئے دوری ہو۔

الاشَّقَحُ : سرخ زرد رنگ ملا ہوا۔ مَوْنَتُ
شَقَّحَاءُ : ج شَقَّحٍ۔

الشَّقِيحِيُّ : سرخ رنگ والا۔

شَقَّدَ (س) شَقَّدًا : تیز نظر بد رنگے والا
ہونا۔ بے نیند ہونا۔ صفت (شَقَّدَ وَشَقَّدَ
وَشَقَّدَ وَشَقَّدَانٌ)

شَقَّدَ (ض) شَقَّدًا وَشَقَّدَ (س) شَقَّدًا :
دور جانا۔

شَاقَّةٌ : باہم دشمنی کرنا۔ دور کرنا۔
أَشَقَّةٌ : دحکارنا۔

الشَّقْدُ وَالشَّقْدُ وَالشَّقْدُ : گرگٹ کا بچہ۔ ج

شَقْدَانٌ وَشَقْدَاذِي. الشَّقْدُ : مہس۔ کہا جاتا
ہے "مَالَهُ شَقْدٌ وَلَا نَقْدٌ" اس کے پاس کچھ
نہیں "وَهَذَا لَيْسَ بِهِ شَقْدٌ وَلَا نَقْدٌ" اس
میں کوئی خلل اور نقصان نہیں۔

الشَّقْدَانُ : بھیڑ یا۔ حشرات الارض۔ کیڑے
کوڑے۔ بھٹ۔ تیز وغیرہ کے چوزے۔

الشَّقْدَانُ : مہس ج شَقْدَانٌ وَ (الشَّقْدُ
وَالشَّقْدُ) گرگٹ۔ بھیڑ یا۔

الشَّقْدَاءُ : بہت بھوکا عتقاب۔

شَقِرَ (س) وَشَقِرَ (ك) شَقِرًا وَشَقِرَةً :
سرخ زرد رنگ کا ہونا۔ صفت (أَشَقِرُ) مَوْنَتُ
شَقِرَاءُ : ج شَقِرٍ۔

أَشَقِرُ : گہرا سرخ زرد رنگ کا ہونا۔

الشَّقِيرُ : امر مقصود و دلچسپ۔ ج شَقِيرٌ کہا
جاتا ہے "أَفْضَيْتُ إِلَيْهِ شَقِيرِي" میں نے
اپنے ان امور کو اس پر مطلع کر دیا جن کو
دوسروں سے چھپاتا تھا "بَنَّهُ شَقِيرَةٌ"

اس نے اپنے حالات کی اس سے شکایت
کی۔
الشَّقِيرُ : مرغ۔ جھوٹ۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ
بِالشَّقِيرِ وَالبَقْرِ" وہ جھوٹ اور مصیبت لایا۔
الشَّقِيرُ وَالشَّقِيرَانُ وَالشَّقَارُ وَالشَّقَارِي :
ایک قسم کی سرخ رنگ کی نباتات یا گل لالہ۔
الشَّقِيرَاقُ وَالشَّقِيرَاقُ : فاختے سے بڑا ایک
پرنده جس کو شَقِيرَاقُ اور شَقِيرَاقُ بھی کہتے
ہیں۔

شَقَّسِقُ شَقَّسِقَةً. الجَمَلُ : اونٹ کا بلبلانا
..... الطَّيْرُ : پرنده کا آواز کرنا۔

الشَّقِيقَةُ : بوقت سستی اونٹ کے منہ کے
جھاگ۔ ج شَقَّاسِقُ اور شَقَّحُ کے لئے

"هَدَرْتُ شَقِيقَتَهُ" کہا کرتے ہیں۔
و"فَلَانٌ بِشَقِيقَتِهِ قَوْمِهِ" فلاں اپنی قوم میں
شریف و فصیح ہے۔

شَقَّصَ. الذَّبِيحَةُ : ذبح کئے ہوئے جانور کو
حصہ داروں کے لئے کاٹ کر برابر حصہ
کرنا۔

الشَّقِصُ : حصہ۔ کسی چیز کا ٹکڑا۔ زمین کا
قطعہ۔

الشَّقِصُ : شریک۔ شرکت۔ حصہ۔ عمدہ
گھوڑا۔ بہت میں سے تھوڑا۔

المِشَقِصُ : چوزا پھل یا چوزے پھل کا تیر۔
ج مَشَقِصٌ۔

الشَّقِصُ : تصاب۔
الشَّقِصُ : مٹی کا ٹکڑا یا پکی ہوئی مٹی۔
الشَّقِصُ : پکی ہوئی مٹی۔

شَقَعَ (ف) شَقَعًا : فِي الْإِنَاءِ : برتن میں
منہ ڈال کر پینا۔
الشَّقَفُ : ٹھیکری۔ ٹھیکری کے ٹکڑے واحد
(شَقْفَةٌ)

الشَّقِيفُ : عند البَنَانِيْنِ : لوبے کا بڑا
تھوڑا۔ نَسِجٌ لِنَظْمِ مَلْطَاسٍ وَالمَلْطَاسُ : ہے۔

شَقَلَّ (ن) شَقَلًا : المَدْرَاهِمُ : تو لانا.....
المِرْأَةُ : جماع کرنا۔

شَوَقَلَّ شَوَقَلَةً : حلیم و بردبار ہونا۔

الشَّاقِفُولُ : معماروں کا سا بول جس سے
دیواری کی ہمواری دیکھتے ہیں۔

شَقَنَ (ن) شَقَنًا وَاشَقَنَ. العَطِيَّةُ : کم
دینا۔ وَاشَقَنَ الرَّجُلُ : کم مال ہونا۔

شَقَنَ (ك) شَقْنُونَةً. العَطَاءُ : کم ہونا۔
صفت (شَقَنٌ وَشَقِنٌ وَشَقِينٌ)

المِشَقِنُ : بیگا (جو تے اور بوئے ہوئے
کھیت کی مٹی کے برابر کرنے کا آلہ)

شَقَا يَشَقُو شَقْوًا وَاشَقِي. اللہ فَلَاتَا :
بد بخت بنانا۔ أَشَقِي شَعْرَهُ : کٹھی کرنا۔

شَقِي يَشَقِي شَقًا وَشَقَاءً وَشَقَاوَةً وَشَقَاوَةً
وَشَقْسُوءَةً وَشَقْسُوءَةً : بد بخت ہونا۔ صفت
(شَقِيٌّ) ج أَشَقِيَاءُ۔

شَاقِسِي. فَلَاتَا : بد بخت ہونے میں مقابلہ
کرنا۔ تم کہتے ہو "شَاقِسِي لَشَقْسُوءَتِهِ" اس
نے بد بخت ہونے میں مجھ سے مقابلہ کیا میں
غالب رہا یعنی میں اس سے زیادہ بد بخت رہا

..... هُ فَمِنِ الخَوْبِ : لڑائی وغیرہ میں مشغول
کرنا..... ه عَلَى كَذَا : صبر کرنے میں مقابلہ
کرنا۔

شَقَّصَ : کسی چیز کا ٹکڑا۔ زمین کا
قطعہ۔

شَقَّصَ : شریک۔ شرکت۔ حصہ۔ عمدہ
گھوڑا۔ بہت میں سے تھوڑا۔

المِشَقِصُ : چوزا پھل یا چوزے پھل کا تیر۔
ج مَشَقِصٌ۔

الشَّقِصُ : تصاب۔
الشَّقِصُ : مٹی کا ٹکڑا یا پکی ہوئی مٹی۔
الشَّقِصُ : پکی ہوئی مٹی۔

شَقَعَ (ف) شَقَعًا : فِي الْإِنَاءِ : برتن میں
منہ ڈال کر پینا۔
الشَّقَفُ : ٹھیکری۔ ٹھیکری کے ٹکڑے واحد
(شَقْفَةٌ)

الشَّقِيفُ : عند البَنَانِيْنِ : لوبے کا بڑا
تھوڑا۔ نَسِجٌ لِنَظْمِ مَلْطَاسٍ وَالمَلْطَاسُ : ہے۔

شَقَلَّ (ن) شَقَلًا : المَدْرَاهِمُ : تو لانا.....
المِرْأَةُ : جماع کرنا۔

شَوَقَلَّ شَوَقَلَةً : حلیم و بردبار ہونا۔

الشَّاقِفُولُ : معماروں کا سا بول جس سے
دیواری کی ہمواری دیکھتے ہیں۔

الشاقی: فا..... من الجبال: پہاڑ کا لہا نکلا
ہوا گوش۔ ج شواق و شقیان.
الشفاء والشفاء: مص۔ حتی۔ بدحتی۔
المشقی: شقی۔

شک (ن) شکاً: فی الامر: شبہ کرنا۔
صفت فاعل (شاک) اور صفت مفعولی
(مشکوک) فیہ علیہ الامر: مشتبہ ہونا
ہ۔ بالرفع: ہڈی تک چھیدنا۔ شکت
الشوكة ورجله: کاٹنا چھیننا۔ شک القوم
بیوتہم: گھروں کو ایک طرز یا ایک قطار میں
بٹانا۔ الخیاط الفوب: کپڑے میں دور
دور تانے لگانا۔ الیہ البلاد: طے کر کے
پہنچنا۔ الشی الی الشی: ملانا۔ علیہ
الامر: دشوار ہونا۔ فی السلاح: ہتھیار
بند ہونا۔ صفت (شاک) السلاح و شاک
فی السلاح: ج شکاک

شک (س) شکاً: فلانا والیہ: نائل
ہونا۔

شککة: شک وشہ میں ڈالنا۔
تشکک: فی الامر: شبہ کرنا۔

الشک: مص۔ شبہ۔ ہڈی میں تھوڑی سی
درز۔ ایک دوا جو چوبوں کے لئے قائل
ہے۔ ج شکوک۔

الشیكة: اسم نوع۔ ہتھیار۔ لکڑی وغیرہ کا
ہتھیار جو کھاڑے کے سوراخ کو تنگ کرنے
کے لئے لگاتے ہیں۔ ج شکک اور کہا
جاتا ہے "فلان مختلف الشیكة" فلاں
مختلف اخلاق والا ہے۔

الشیكة: مسافت۔ کہا جاتا ہے "ینسہما
شیکة بعیدة" ان دونوں کے درمیان بڑی
مسافت ہے۔

الشاکة: الشاک کا مؤنث لگے کی
سوجن۔ ج شواک۔ بیوت (شکاک)
ایک قطار کے مکانات۔

الشیکاکة: زمین کا گوش۔
الشیککة: طریقہ۔ عادت۔ کہا جاتا ہے
"ذعہ علی شیکککبہ" اس کو اس کی عادت

پر چھوڑ دو۔ فرقہ: میوہ کی ٹوکری۔ ج
شکایک وشکک۔

المیشک: سوراخ کرنے کا آلہ۔ زرہ۔ ج
مشاک۔

الشکی: سخت لگام۔
الشکوک: بہت بالوں والی اونٹنی کہ جس
کی لاغری و فرہی معلوم نہ ہو سکے۔

الشککة: تیز ہتھیار یا ہتھیار کی تیزی۔
شکا (ف) شکاً: ناب البعیر: وابت
نکلتا۔

شکی (س) شکاً: ظفورة: ناخن پھلنا۔
أشکات: الشجرة: شاخیں نکالنا۔
الشکب: بدلہ۔ بخشش۔

الشکبان: گھاس جمع کرنے کی جھولی۔
الشوكة: بڑے پھانک میں چھوٹا
دروازہ۔ ج شوکج۔

شکذ (ن) شکذا وشکذ: بخشا۔ دینا۔
أشکذ: دینا۔ روی مال جمع کرنا۔

الشکذ: بخشش۔ شکر یہ۔
شکر (ن) شکرًا وشکورًا وشکرًا: انا
الرجل ولہ (وببلاد الفصح) شکر یہ ادا
کرنا۔ شکر کرنا۔ بہتر سلوک پر تعریف کرنا اور
کہا جاتا ہے "شکر اللہ سغیک" یعنی اللہ

تمہاری کوشش کی جزا ہے "شکرٹ
لفلان نعمتہ" اللہ میں نے فلاں کی نعمت کا
شکر یہ ادا کیا۔ وشکر اللہ وللہ وباللہ
ونعمتہ اللہ ونعمتہ اللہ: اس نے اللہ کا شکر
یا اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا۔ صفت (شاکر)
ج شاکرون وشکر۔ شاکرون: ایک قسم کی
گھاس۔

شکرت (س) شکرًا: النافقة: اونٹنی کا
بھرے ہوئے تھن والی ہونا۔ صفت
(شکرت) ج شکرات وشکاری
وشکری (ومشکار)۔ الشجرة:
درخت کی جڑ میں سے شاخ نکلنا۔ الرجل
: بجل کے بعد جی ہونا۔

أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
صفت (شکران) مؤنث شکرى۔ ج
شکاری وشکاری۔ عین شکرى:
آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھ۔ أشکر
الشجر: درخت کی جڑ میں سے شاخ نکلتا۔
شاکرة: شکرگزارى دکھانا۔ ہ الخدیث:
گفتگو شروع کرنا۔

أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔

أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔

أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔

صفت (شکران) مؤنث شکرى۔ ج
شکاری وشکاری۔ عین شکرى:
آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھ۔ أشکر
الشجر: درخت کی جڑ میں سے شاخ نکلتا۔
شاکرة: شکرگزارى دکھانا۔ ہ الخدیث:
گفتگو شروع کرنا۔

أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔

أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔

أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔

أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔

أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔

أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔

أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔

أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔

أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔

أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔

أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔

أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔
أشکر۔ الصرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔

الشُّكْر والشُّكْر: بدخلق۔
الشُّكْر: شاکر کا مبالغہ۔ جُتَبُو۔

شُكْسٌ (ک) شُكْسَةٌ وشُكْسٌ (س)
شُكْسًا: بخیل ہونا۔ درشت خو ہونا۔ سخت
مزاج ہونا۔ صفت (شُكْسٌ وشُكْسٌ) ج
شُكْسٌ۔
شَاكِسَةٌ مُشَاكِسَةٌ: مخالفت کرنا۔ سختی سے
پیش آنا۔

تَشَاكَسَ القَوْمُ: باہم مخالفت کرنا۔ کہہ جاتا
ہے "اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ يَتَشَاكَسَانِ" دن اور
رات ایک دوسرے کی ضد ہیں۔

الشُّكَيْسُ: نحوست۔
المُشْكِسُ: بخیل۔ سخت مزاج۔
الشُّكْسُ: نئے چاند نکلنے سے ایک دو دن
پہلے۔

الشُّكْبُصُ والشُّكْبَيْصُ: بدخلق۔ الشُّكْبَيْصَةُ
: اونٹنی جس کے نہ تو تھن میں دودھ ہونہ حاملہ
ہو۔

الشُّكَاصُ: نامواردانوں والی عورت۔
شُكِبَعٌ (س) شُكِبَعًا. المَرِيضُ: بہت آدو
زاری کرنا۔ صفت (شُكِبَعٌ وشُكِبَعٌ
وشُكُوْعٌ) النزْعُ: بھینٹ کا زیادہ دانوں
والی ہونا۔ الشُّرْجُلُ: غضبناک ہونا۔
درومند ہونا۔

أَشْكَعُهُ: غضبناک کرنا۔ ملول کرنا۔ تنگ دل
کرنا۔ زچ کر دینا۔

شُكْلٌ (ن) شُكْلًا وشُكْلٌ. الأَمْرُ: مشتبه
ہونا۔ شُكْلٌ وشُكْلٌ العَنْبُ: انگور کا پکنے
لگنا۔ شُكْلٌ وشُكْلٌ الكِتَابُ: اعراب
لگانا۔ شُكْلٌ وشُكْلٌ الدَّابَّةُ بالشُّكَالِ:
جانور کو پائے بند ڈالنا۔ شُكْلُ الشَّيْءِ: تصویر
بنانا۔ شُكِلَتْ وشُكِلَتْ المَرْأَةُ شَعْرَهَا:
دائیں اور بائیں جانب زلف کی دو لٹیں
بٹنا۔

شُكِبِلٌ (س) شُكِبِلًا: سرخ و سفید ہونا
..... الشَّيْءُ: سفید مائل سرخ ہونا..... المَرْوَةُ
: عورت کا ناز و انداز والی ہونا۔

أَشْكَلَ. الأَمْرُ: مشتبه ہونا۔ کہا جاتا ہے
أَشْكَلتُ عَلَيَّ الأَخْيَارُ: میرے اوپر خیریں
مشتبه ہو گئیں۔

..... العَنْبُ: انگور پکنے لگانا..... الشُّخْلُ:
درخت خرما پک کر تیار ہونا..... الكِتَابُ:
اعراب لگانا..... الشَّيْءُ: مشکل ہونا.....
المَرِيضُ: بیمار کا صحت کے قریب ہونا۔

شَاكِلَةٌ مُشَاكِلَةٌ: مشابہ ہونا۔ موافق ہونا۔
کہا جاتا ہے "فِي فُلَانٍ مُشَاكِلَةٌ مِنْ أَبِيهِ"
اس میں اس کے باپ کی مشابہت ہے۔
تَشَكَّلَ: صورت اختیار کرنا..... العَنْبُ: انگور
پکنے لگانا۔

الشُّكْلُ والشُّكْلُ. الأَمْرُ: مشتبه ہونا۔
الشُّكْلُ: محس۔ مشابہت۔ مَثَلٌ - نُظِيرٌ - مَثَلٌ
معاملہ۔ قصد و ارادہ۔ کہا جاتا ہے "نَسَأَلْتُ
عَنْ شُكْلِ فُلَانٍ" میں نے فلاں کے ارادہ و
دریافت کیا۔ عورت کا ناز و انداز۔ محسوس یا
متوہم چیز کی صورت شکل مثلاً دلائی۔ کچی۔

سیدھا پن وغیرہ۔ ج اشْكَالٌ وشُكُولٌ۔
الأَشْكَالُ: چاندی یا موتیوں کے زیورات جو
ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں اور جن کو
عورتیں کان میں پہنتی ہیں اور کہا جاتا ہے
"أَفْزُوزُ أَشْكَالٍ" یعنی مشتبه امور۔ شُكْلٌ
الکِتَابُ: کتاب کی حرکات۔ الشُّكْلَةُ: ایک
حرکت مثلاً زریز بر یا پیش۔

الشُّكْلُ: مَثَلٌ - عورت کا ناز و انداز۔
الشُّكْلَةُ: سرخی مائل یہ سفیدی (.....
والشُّكْبَالُ) مشابہت۔ کہا جاتا ہے "فِيهِ
شُكْلَةٌ أَوْ شَاكِلٌ مِنْ أَبِيهِ" اس میں اس کے
باپ کی مشابہت ہے۔ امْرَأَةٌ (شُكْلَةٌ) ناز و
انداز والی عورت۔

الشُّكَالُ: جانور کا پائے بند۔ ڈوری جو اونٹ
کے پیش بند اور تنگ کے درمیان باندھتے
ہیں۔ اگلی ٹانگ اور پچھلی ٹانگ باندھنے کا
بندھن۔ ج شُكْلٌ. الشُّكَالُ فِي الخَيْلِ:
تین ٹانگوں کا سفید اور ایک دوسرے رنگ کا
ہونا یا اس کے برعکس۔

الشَّاكِلَةُ. الشَّاكِلُ: کامونٹ۔ شکل۔
جانب۔ جیسے شَاكِلَةُ الطَّرِيقِ: طریقہ
نہب۔ نیت۔ حاجت۔ کوکھ۔ ج شُؤَاكِل
اور اسی سے ہے "أَصَابَ شَاكِلَةَ
الصُّؤَابِ" اس نے طریقہ صواب پالیا۔
و "فُلَانٌ يَرْمِي بِرَأْيِهِ الشُّؤَاكِلَ" یعنی فلاں
وجودہ صواب کو پالتا ہے۔ الشُّؤَاكِلُ:
بڑے رستے سے نکلے ہوئے راستے۔ کہا جاتا
ہے هَذَا طَرِيقٌ ذُو شُؤَاكِلٍ: یہ راستہ ایسا ہے
جس سے مختلف راستے نکلے ہیں۔

الأَشْكَالُ: سفیدی مائل سرخی۔ آنکھوں کی
سفیدی میں سرخی والا اور کہا جاتا ہے "هَذَا
أَشْكَالٌ بِهِ" اس کے مشابہ ہے۔ ج شُكْلٌ۔
الشُّكْلَاءُ: أَشْكَالٌ: کامونٹ۔ حاجت۔
الشُّؤَاكِلَةُ: نازیہ۔ جانب (الشُّؤَاكِلُ) کا واحد
بمعنی عوسج اور عوسج: ایک کانٹے دار
درخت کا نام ہے۔

الأَشْكَالَةُ: التَّبَاسُ۔ مشابہت۔ کہا جاتا ہے
"فِيهِ أَشْكَالَةٌ مِنْ أَبِيهِ" اس کے اندر اس کے
باپ کی مشابہت ہے۔ حاجت جو انسان کو
پابند کر دے۔ تم کہتے ہو "لَنَا عِنْدَهُ أَشْكَالَةٌ"
اس کے پاس ہماری حاجت ہے۔
الشُّكْبِلُ: خون آمیز جھاگ جو لگام کے
لوہے پر ظاہر ہو۔

الشُّكْبِلُ والشُّكْبِلَةُ: امر دشوار یا امر
مشتبه۔ ج مَشَاكِلٌ ومُشْكِلَاتٌ۔

المَشْكُولُ. مِنَ الخَيْلِ: تین ٹانگوں میں
سفیدی اور ایک ٹانگ میں دوسرے رنگ
والا۔ پائے بند سے بندھا ہوا۔
المُشْكِلُ: صورت و شکل والا۔

شُكْمَةٌ (ن) شُكْمًا: دینا۔ بدلہ دینا۔
فَلَانًا: رشوت دینا۔

شُكْمَةٌ (ن) شُكْمًا وشُكَيْمًا: دانٹ سے
کاٹ لینا۔

شُكِمٌ (س) شُكْمًا: بھوکا ہونا۔
أَشْكَمَةٌ: بدلہ دینا۔
الشُّكْمُ والشُّكْمِيُّ: ثواب۔ بدلہ۔ عطیہ۔

الشکیم: شیر۔

الشکیمۃ: تکلیف۔ ظلم کی دادرسی۔ عہد۔

طبیعت۔ چیتا۔ زہر۔ مشابہت۔ من۔

البلخام: لگام کا وہ لوہا جو گھوڑے کے منہ میں

ہوتا ہے۔ ج شکائم و شکیم و شکیم اور

اسی سے ہے "فلان ذو شکیمۃ" او شدید

الشکیمۃ: یعنی فلاں خود دار اور غیر متند

ہے۔

شاکھہ شکاھا و مشکاھۃ: مشابہ ہونا۔

اشکۃ: الامر: دشوار ہونا۔

تشاکھا: باہم مشابہ ہونا۔

شکا یشکو شکوی و شکوا و شکاۃ

و شکاۃ و شکایۃ و شکبۃ: الیہ زیذا:

شکایت کرنا۔ شکایت کرنے والے

کو (شکاب) جس کی شکایت کی جائے اس کو

(مشکو و مشکئی) اور جس سے شکایت کی

جائے اس کو (مشکو) الیہ اور شکایت کو

(شکوئی) کہتے ہیں۔ شکا الامر او العلة:

ذکر کرنا یا دردمند ہونا۔ مروضہ للطیب:

طیب سے مرض کی کیفیت بیان کرنا

..... افورۃ الی اللہ: ظاہر کرنا۔

شکا یشکو شکوا و شکوی و شکاۃ.

المروض فلانا: الم پہنچانا۔ دردمند بنانا۔

شکی تشکیۃ: الشاکسی: شکایت قبول

کرنا۔

اشکی اشکاء: فلانا: شکایت قبول کرنا۔

شاکي پانا۔ کسی کے سامنے شکایت اور

تکلفات شوق کو بیان کرنا۔ کسی کے ساتھ ایسا

معاملہ کرنا کہ وہ شکایت کرنے پر مجبور ہو۔

کسی سے شکایت کو زائل کر دینا۔ فلانا من

فلان: کسی سے کوئی چیز کسی کی خوشنودی کے

لئے لینا۔ کہا جاتا ہے "هو یشکی بکذا" وہ

فلاں چیز کے ساتھ بہیم ہے۔

شاکاھ: شکایت کرنا۔

تشکی: بیمار ہونا۔ الیہ: شکایت کرنا۔ من:

جرح: دردمند ہونا۔

اشکی: بیمار ہونا۔ الیہ: شکایت

کرنا۔ من جرحہ: دردمند ہونا۔

تشاکسی تشاکبیا: القوم: باہم دیگر شکایت

کرنا۔

الشکو و الشکوی و الشکاء و الشکاة

و الشکواء: بیماری۔ الشکوی: جس چیز کی

شکایت کی جائے۔ ج شکاوی۔ الشکو:

چھوٹا اونٹ۔

الشکوۃ: شکا: کا اسم مرۃ۔ شکو: بمعنی

مرض کا واحد ج شکوات و شکاء

(..... الشکیۃ) پانی یا دودھ کا چڑے کا

برتن۔

الشکی: جس کی شکایت کی جائے۔

دردمند۔ مؤنث (شکیۃ: ج شکایا) (.....

و الشاکسی) معمولی بیمار رجل شاکسی

السلاح: ہتھیار بند صاحب شوکت و رعب

مرد (یہ شانک کا مقلوب ہے۔)

الشکاة: عیب۔

المشکاة: طاق۔ چراغ رکھنے کا طاق۔

چراغ دان۔

شکی یشکی شکیا: الیہ: شکایت کرنا۔

الشکیۃ: بقیہ۔

شَل (ن) شَلًا: الشوب: کپڑے میں ہلکی

سلائی کرنا۔ شَلت العین دمعها: آنکھ کا

آنسو بہانا۔ البز ع و شَلها علیہ: زرہ

پہننا۔ الشی: کاٹنا۔

شَل (ن) شَلًا و شَلَلًا: الابل: اونٹوں کو

بھگانا۔ دھکارنا۔ کہا جاتا ہے "مرفلان

یشلہم بالسنیف" فلاں گزر اس حال میں

کہ لوگوں کو تلوار سے بھگا رہا تھا۔ و الصبغ

یشل الظلام" صبح تاریکی کو دور کر دیتی

ہے۔

شَلت (س) شَلًا و شَلَلًا و شَلت

و انشَلت (شللاً): ینذہ: خشک ہونا۔ لچا ہونا۔

ایسے ہاتھ کو (شلہ) اور ایسے ہاتھ والے کو

(اشل) کہتے ہیں۔ جو شخص اچھی طرح تیر

چلائے یا تیز و بازی کرے اس کے لئے دعا

کے طور پر کہتے ہیں "لا شلت ینذک او لا

شَلت عشرک" تمہارے ہاتھ یا تمہاری

دس انگلیاں بے کار نہ ہوں۔

اشل: بیمار ہاتھ والا ہونا۔

انشل: المنظر: برشنا۔ السیل: سیلاب

بڑھنا شروع ہونا۔ الذنب فی الغنم:

بھیرے گا بکریوں میں تابی ذالنا۔ انشلت

الابل: بھاگنا۔

شلل: بنی علی اکسر۔ شلل: کا اسم ہے۔ تیر

انداز کے لئے دعا کے موقع پر کہا جاتا ہے

"لا شلل" بمعنی لا شلت ینذک.

الشلل: مصل۔ کپڑے دھونے کا داغ جو

دھونے سے بھی نہ جائے۔ ہاتھ کی خرابی۔

الشلل و الشلل و الشلول: تیز۔ خوش

مزاج۔

الشلال: متفرق لوگ۔ کہا جاتا ہے "جاء

القوم شلالاً" اونٹوں کو بھگاتے ہوئے لوگ

آئے۔

الشلۃ: اسم مرۃ (..... و الشلۃ و الشلی)

دور کا مقصد۔ جہت سفر۔

الشلیل: اونٹنی کپڑا کا ٹکڑا جس کو کجاوہ کے

پچھے جانور کے سرین میں ڈالتے ہیں۔ چھوٹی

زرہ جو بڑی زرہ کے نیچے پہنی جائے۔ کرتہ

جو زرہ کے نیچے پہنا جائے۔ وادی میں پانی

پینے کا بڑا ٹالہ۔ ج اشلۃ.

الشلال: آبشار۔ ج شلالات.

المیشل: گردن پر ڈالنے کا کپڑا۔ رجسل

میشل: سبک دست۔ تیز۔ خوش مزاج۔

شلخۃ شلیخا: ننگا کرنا۔

الشلخاء و الشلخی: تیز تلوار۔ ج شلخ.

المشلخ: حمام کا کرہ جس میں کپڑے اتارے

جائیں۔

شلخہ (ن ف) شلخا: بالسنیف: تلوار

سے کاٹنا۔

الشلخ: مصل۔ اصل۔ بڑ۔ آدمی کی اولاد۔

کہا جاتا ہے "هو شلخ سوء" وہ بری اولاد

ہے۔

شلل شللۃ و شلالاً: الماء: پانی

چکینا..... المَاءُ وَبِالمَاءِ: پانی متفرق چھڑکنا
 المَاءُ: پانی پکاتا..... السِّفُّ الدَّمُ:
 گرائنا۔ صفت مفعولی (شَلَّشَلٌ وَشَلَّشِلٌ
 وَشَلَّشَلٌ)
 تَشَلَّشَلٌ. المَاءُ: پانی کا پھینکنا۔ بکھرتا.....
 السِّفُّ بِالدَّمِ: گرائنا۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ وَ
 جُرْحُهُ يَتَشَلَّشَلُ دَمًا" وہ اس حال میں آیا
 کہ اس کے زخم سے خون ٹپک رہا تھا۔
 الشَّلَّشَلُ: چپکنے والی مٹک۔ مَاءٌ شَلَّشَلٌ
 : لگا تار چپکنے والا پانی۔ مَاءٌ ذُو شَلَّشَلٍ: چپکنے
 والا پانی۔ (الشَّلَّشَلُ وَالشَّلَّشَلُ) مِن
 الرِّجَالِ: تیز و سبک دست۔ خوش مزاج۔
 الشَّلَطُ وَالشَّلَطَاءُ: چھری۔
 الشَّلَطَةُ: باریک اور لمبا تیر۔ ج شَلَطُ.
 شَلَعٌ (ف) شَلَعًا. الرَّاسُ: چکینا۔ توڑنا۔
 الشَّلَفُ: مِنَ الحَدِيدِ عِنْدَ العَامَةِ: لوہے
 کی سلاخ۔
 الشَّلَؤُفُ: عِنْدَ العَامَةِ: آبخار۔ آبخار
 گرنے کی جگہ۔
 الشَّلَافَةُ: مِنَ النِّسَاءِ: بدکار عورت۔
 شَلْفَةٌ (ن) شَلْفًا: لمبا پھرتا یا چیرنا..... ہ۔
 بِالسُّوْطِ: کوڑے سے مارنا۔
 الشَّلِقُ وَالشَّلِيقُ: نرم کانٹوں والی ایک
 مچھلی۔ ج اشلاق۔
 الشَّلَقَاءُ: چھری۔
 الشَّلَقَةُ وَالشَّلَقَةُ: گوہ کے اٹھنے۔
 الشَّلَقَةُ: گھوڑوں کو سدھانے والے۔
 الشَّلَقَةُ: موگری جس سے کسی چیز کو توڑیں۔
 الشَّلَاقُ: فقیروں کا تھیلا۔
 الشُّوْلِقِيُّ: مٹھائی بیچنے والا یا مٹھائی کی زیادہ
 خواہش رکھنے والا۔
 البِشْلِيقُ: بشتے وقت نہ کھولنے والا۔
 الشَّيْلُمُ وَالشُّوْلُمُ وَالشَّالْمُ: ایک قسم کا کڑوا
 دانہ جو بیجوں میں پیدا ہوتا ہے۔
 الشَّيْمُ: چنگاری۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ يَنْطَايِرُ
 شَيْمَهُ" فلاں کے عصہ کی وجہ سے چنگاری اڑ
 رہی ہے۔

شَلَا يَشْلُوُ شَلْوًا: چلنا..... الشَّيْ: بلند کرنا۔
 أَشْلَى إِشْلَاءً. الكَلْبُ عَلَى الصَّيْدِ: کتے
 کو شکار پر اُکسانا۔ بھڑکانا..... النَّاقَةُ: اونٹنی
 کو دو بٹے یا چارہ کے لئے بلانا۔
 إِشْلَى. فَلَانًا: چھڑانا۔
 إِشْتَلَى: غصبناک ہونا..... ہ۔ چھڑانا۔
 الشَّلْوُ: عَضُو. اُونْتِي کا بچہ۔ ہر پوست کشیدہ
 بصر میں کچھ کھایا گیا ہو اور کچھ باقی رہ گیا
 ہو۔ ج أَشْلَاءُ. إِشْلَاءُ البَلْجَامِ: لگام کے
 تھے جو پرانے ہوں۔ أَشْلَاءُ الأَنْسَانِ:
 اعضاء انسانی۔ کہا جاتا ہے "بَنُو فُلَانٍ
 أَشْلَاءٌ فِى بَنِي فُلَانٍ" بنو فلاں بقایا ہیں بنو
 فلاں کے۔
 الشَّلْوُ الشَّلَاءُ: ہر چیز کا جسم۔
 الشَّلِي: ہر چیز کا بقایا۔
 الشَّيْبَةُ: مال کا بقیہ۔ گوشت کا ٹکڑا۔ ج
 ضلایا۔
 المُشَلَّى: لاغر و نحیف۔
 شَمٌ (س ن) شَمًا وَشَمِيمًا وَشَمِيمِي.
 الوَزْدُ: گلاب کا پھول سوگھنا..... شَمَمًا
 تکبیر کرنا۔ الشَّجَلُ: اَوِ الأَنْفِ: چوٹی بلند
 ہونا۔ صفت (أَشْمٌ وَشَمِيمٌ)
 شَمٌ: آزماتش کیا جاتا۔
 شَمَمُ. الزَّهْرُ: پھول سوگھنا..... ہ الزَّهْرُ:
 پھول سوگھنا۔
 أَشْمٌ: سر اٹھا کر گزرتا..... الوَزْدُ: گلاب کا
 پھول سوگھنا..... عَنِ الأَمْرِ: الگ ہونا۔
 بِنَا۔ أَشْمُ القَارِئِ الحُرُوفِ: اشمام: کر کے
 وقف کرنا۔ کہا جاتا ہے "أَشْمُنِي يَدُكُ"
 مجھے اپنا ہاتھ دو۔ "عَسْرَتْ عَلَيْهِ كَذَا
 فَمَاذَا هُوَ مُشِمٌ لَا يُرِيدُهُ" میں نے اس پر
 فلاں چیز پیش کی اس نے ناک بھوں چڑھا
 لی۔ اس کی خواہش اسے نہیں۔
 شَامًا مُشَامَةً وَشَامًا تَشَامًا: ایک دوسرے
 کو سوگھنا۔
 إِشْتَمَ. الشَّيْ: سوگھنا۔
 تَشَمَّمَهُ: آہستہ آہستہ سوگھنا۔

إِسْتَشَمَّهُ: سوگھنے کی درخواست کرنا۔
 سوگھنا۔
 الشَّمُ: مہس۔ سوگھنا۔
 الشَّمَامَةُ: سوگھنے کی حس۔
 الشَّمَمُ: مہس۔ نزدیکی۔ دوری (خند)
 ناک کے بانس کی بلندی حسن و ہمواری کے
 ساتھ۔
 الشَّمِيمُ: مہس۔ بلند۔ عمدہ خوشبو۔
 الأَشْمُ: مغرور سردار۔ کریم۔ اونچی ناک
 والا۔ مَوْنَتُ شَمَاءُ. ج شَمٌ.
 الشَّمَامُ وَالشَّمُومُ: بہت سوگھنے والا۔
 الشَّمَامُ: ایک قسم کا زرد رنگ کا خربوزہ۔
 واحد (شَمَامَةٌ) ج شَمَامَاتُ. الشَّمَامَاتُ:
 عمدہ خوشبوئیں۔
 الإِشْمَامُ. عِنْدَ القُرْءَانِ وَالنَّحَاةِ: بغیر آواز
 کے ہونٹ سے حرکت کی طرف اشارہ کرنا۔
 المَشْمُومُ: مہس۔ جو چیز سوگھنے سے معلوم
 ہو۔ مٹک۔
 شَمْتٌ (س) شَمَاتًا وَشَمَاتَةً. بِفُلَانٍ: کسی
 کی مصیبت پر خوش ہونا۔ صفت فاعلی.....
 (شَمَاتٌ) ج شَمَاتَاتُ اور صفت مفعولی
 (مَشْمُوتٌ) بہ۔
 شَمْتٌ. العَاطِسُ وَشَمْتٌ عَلَيْهِ:
 يَرْحَمُكَ اللّٰهُ: کہہ کر دعا کرنا۔ یاد دعا کرنا
 کہ ایسی حالت میں مبتلا نہ ہو جس پر کسی کو
 ثنات کا موقع ملے..... ہ محروم کرنا۔ شَمْتٌ
 بَيْنَهُمَا: جمع کرنا۔
 أَشْمَتَهُ. اللّٰهُ بَعْدَ وَهٍ: دشمن کے غم سے خوشی
 کرنا۔
 تَشَمَّتْ. القَوْمُ: بلا نعمت کے محروم واپس
 آنا۔
 الشَّمَاتُ: قَا۔ ج شَمَاتَاتُ.
 الشَّمَامَةُ. الشَّمَامَاتُ: کاموٹ۔ جانور کی
 ناک۔ ج شَوَامِتُ کہا جاتا ہے "بَنَاتُ
 بَلْبَلَةَ الشَّوَامِتِ" اس نے سخت مصیبت میں
 رات گزار دی جس پر خوش ہونے والی غورتوں
 نے خوشی منائی۔ وبنات طوع الشَّوَامِتِ:
 تَشَمَّمَهُ: آہستہ آہستہ سوگھنا۔

مصیبت پر خوش ہونے والی عورتوں کی خواہش کے مطابق اس نے رات گزاری۔

الشمات والشماتی: محروم لوگ (جمع ہے واحد نہیں) کہا جاتا ہے "زجع القوم شماتا او شماتی" قوم محروم واپس آئی۔

الشماتیا: فرانس میں بطور رواج عورتیں سر پر لیتی ہیں۔ وہاں کے شہر کے نام پر۔

شمج (ن) شمجھا: الشی: ملانا..... القوب: کپڑے کو ڈور ڈور سینا۔ شمجھ عن کذا: الگ کرنا..... فلاتا: جلدی کرانا۔

الشماج: انگور کا وہ حصہ جو کھانے کے بعد پھینک دیا جائے۔ کہا جاتا ہے "مأذقت شماجا" یعنی میں نے کچھ نہیں چکھا۔ ناقۃ (شمجی) تیز رفتار اونٹنی۔

شمجور: الرجل: خوفزدہ کی طرح دوڑنا۔ الشمحط والشمحاط والشمحوط: بہت لمبا۔

شمخ (ف) شمخا وشموخا: الجبل: پہاڑ کا بلند ہونا۔ صفت (شامخ) ج شمخ: مؤنث شامخۃ ج شوامخ و شامخات (وشمخ) انفسہ وبانفہ: تکبر سے ناک چڑھانا۔ صفت (شمخ) شامخ: بلند ہونا۔ تکبر کرنا۔

شمخ: بانفہ: تکبر کرنا۔ الشامخ: فا۔ نسب شامخ: شریف نسب رجل شامخ: تکبر مرد۔

الشمشاخ: شامخ: کا مبالغہ جبل شماخ: بہت بلند پہاڑ..... مفارۃ (شموخ وشمخ) دور اطراف والا۔ بیابان۔

شمخو شمخوۃ: تکبر کرنا۔ اشمخو اشمخوۃ: الشی: طویل ہونا..... الجبل: پہاڑ کا بلند ہونا۔

الشمخو والشمخو: تکبر مرد۔ بلند نظر۔ مونا آدی یا اونٹ۔

الشمذو والشمذو والشمذو: تیز رفتاری۔

الشمذوۃ والشمیذو: چست لڑکا۔

شمز (ن ض) شمزا: تیز چلنا۔ تکبر سے چلنا..... النخل: کھجوریں کا ثنا۔

شمز تشمیرا: تیز گزرتا..... ہ: تیز چلانا۔ الشی: سیننا..... السفینۃ او الصقر: چھوڑنا۔

القوب عن ساقیہ: اٹھانا..... فی الامر: جستی کرنا..... لا امر: ارادہ کرنا اور آمادہ ہونا۔

الی المنکان: قصد کرنا۔ شمرب الخوب و شمرب عن ساقیہا: سخت ہونا۔ شمروۃ: جلدی کرانا..... ہ بالسیف

تشمرو وانشمرو: تیز چلنا یا تکبر سے چلنا..... الامر: ارادہ کرنا اور آمادہ ہونا۔ الشمسر: فیاض تھی۔ صاحب بصیرت۔

پر کھنے والا۔ تجر بہ کار۔ الشمزۃ والشمار: ایک قسم کا پودہ ہے جس کے پھول زرد رنگ کے اور دانے سبز رنگ کے لپے ہوتے ہیں۔ شمرو (شمسر) سخت برائی۔

الشمور: الماس۔ ہیرا۔

الشمیر والشمیری والشمیری والشمیری: تجر بہ کار۔ دانائے امور۔ محنت سے کام کرنے والا۔ من الابل: تیز رفتار۔

ناقۃ او الشلۃ (شامیر او شامیرۃ) اونٹنی یا بکری جن کے تھن پیٹ سے لگے ہوئے ہوں۔ لفة شامیرۃ: دانتوں کی جڑوں سے لگا ہوا سوڑھا۔ ج شوامیر۔

المشیر: فا۔ تجر بہ کار۔ محنت سے کام کرنے والا۔

شمرج: القوب: دور دورا نکلے لگا کر خراب سلائی کرنا..... فی الکلام: گڑبڑ کرنا۔ خلط ملط کرنا۔

الشمراج: جھوٹ سے مفلوط گفتگو کرنا۔ ج شماریج: الشماریج: باطل باتیں۔

الشمرج: باریک بناوٹ کا کپڑا۔ قوب (شمسرج) باریک بناوٹ کا کپڑا۔ شمرخ: العذق: کھجور یا انگور کے پتھوں کو

کا ثنا۔

الشمروخ والشمراخ: کھجور یا انگور کا گچھا۔ الشمراخ: پہاڑ کی چوٹی۔ بادل کا بالائی حصہ۔ الشمروخ: باریک ٹہنی جو سخت شاخ کے اوپر کے حصہ میں نکلے۔ ج شماریج۔

الشمردل: جوان تیز رفتار خوبصورت اونٹ وغیرہ۔

الشمردلۃ: خوبصورت اونٹنی۔ الشمردل والشمردل: لمبازیل دول مرد۔

الشمارق والشماریق والشمرق: من الیاب: کپڑا جو گلے سے لٹڑے ہو گیا ہو۔

شمزث (ن) شمزا: نفسه منه: کراہت کی وجہ سے نفرت کرنا۔ تشمزر: الوجه: سکرنا۔

اشمزا اشمزرا: خوفزدہ ہونا۔ کراہت کی وجہ سے بدن پر روٹنے کھڑے ہونا..... الشی: مکروہ جاننا..... منه: منقبض ہونا اور کراہت کی وجہ سے نفرت کرنا۔

شمس (ن) شمسا وشماسا: باز رکھنا۔ انکار کرنا..... لہ: دشمنی ظاہر کرنا۔

برائی کا ارادہ کرنا..... القوس: نہ چڑھنے دینا نہ زین لگانے دینا نہ ایک جگہ قرار لینا۔ صفت (شموس) ج شمسن وشمسن (وشامسن) ج شوامسن۔

شمسن (ن ض) شمسا وشمسن (س) شمسا وشمسن: دھوپ والا ہونا۔ صفت (شامسن وشمسن) وشمسن لی: عداوت ظاہر ہونا اور چھپانے پر قادر نہ ہونا۔

شمسن: الکافیو: آفتاب کی پریش کرنا..... الشی: دھوپ میں پھیلا نا..... ہ: نفرت دلانا۔

فلان: شمس ہونا (دیکھو لفظ شمس) شامسۃ: دشمنی کرنا۔

تشمسن: دھوپ میں بیٹھنا یا کھڑا ہونا..... علینا: بخل کرنا۔

الشمس: بصر - آفتاب - بصیر شخیصة۔
 ش شمس الشمس: ایک قسم کی کھجی۔
 ایک قسم کا ہار۔ کہا جاتا ہے "تسط الشی فی
 الشمس" اس نے چیز کو دھوپ میں پھیلا یا۔
 و"ذخلت الشمس فی البیت" دھوپ گھر
 میں داخل ہو گئی۔
 الشمس: سورج جس کے درجہ حرارت کی
 مقدار سطح ۶۰۰۰ اور اندرونی ۹۰۰۰ ملین ذکر
 کی گئی ہے۔ اس کا قطر زمین کے قطر سے ۱۰۹
 گنا زیادہ ہے۔
 الشمس والشمس والشمس: بین
 الایام: دھوپ والا دن۔
 الشمس: بہت سخت دشمنی کرنے والا۔
 شمس وشمس۔
 الشمس: فنا۔ من الایام: دھوپ والا دن۔
 من الخیل: گھوڑا جو تیار پکڑے اور نہ سوار
 ہونے دے۔ من الرجال: دشوار خو۔
 شوامس۔
 الشمسیة: عند المولدين: چھتری
 (دھوپ یا بارش سے بچنے کے لئے) اور صبح
 یہ ہے کہ دھوپ سے بچانے والی کو طلّة یا
 مظلة کہا جائے اور بارش سے بچانے کو
 غالة۔
 الشمساس: قیس سے نیچے درجہ کا پادری۔
 (کلمہ سریانی ہے اس کے معنی خادم کے
 ہیں۔)
 الشمسیس: فنا۔ سخت۔ مضبوط۔ بخیل۔
 الشمشیل: باقی۔
 الشمیقة: بمعنی الشمیقة۔
 الشمیلقی: ذہیلہ ڈھالے اعضا کی
 بڑھیا۔ تیز رفتار۔
 شمس (ن) شمساً وشمص۔
 الدواب: جانوروں کو تیز یا کتنا شمسہ
 بالسوط: کوڑے سے مارنا۔ الرجل:
 تکلیف پہنچانا۔ یہاں تک کہ غضبناک ہو
 جائے۔ شمسہ الشی: بے قرار کرنا۔
 شمس (س) شمساً: جلدی جلدی بولنا۔

أشمص وأشمص: خوفزدہ ہونا۔
 تشمص: سکڑنا۔
 الشمصاص: نکل جانا۔
 الشمصاص: جلدی۔
 الشمص: من الخیل: سرکش گھوڑا جو نہ
 سوار ہونے دے اور نہ زمین کسے دے۔
 شمصر شمصرة: غلیہ کسی پر سختی کرنا۔
 شمسط (ض) شمسطاً: الشی: ملانا۔
 الإناء: برتن کو بھرنا۔ الشجر: درخت کا
 جھڑے ہوئے پتوں والا ہونا۔
 شمسط (س) شمسطاً وشمسطاً
 وشمسطاً وشمسطاً وشمسطاً
 وشمسطاً: سر میں چھڑی بالوں والا ہونا۔
 صفت (أشمط) شمسطاً وشمطان:
 مؤنث شمطاء وشمط۔
 شمط وشمطة: ملانا۔ أشمط الرجل:
 سر میں چھڑی بالوں والا ہونا۔
 الشایط: وہ دیگ جس میں پوری بکری صبح
 مسالا کے آجائے۔
 الشمط والشمط والشمط: مسالا۔
 شمطاً وشمطاً۔
 الشمیط: مخلوط۔ صبح (چونکہ اس میں کچھ
 رات کی تاریکی ملی ہوئی ہوتی ہے۔)
 الشمطات: فی الزاوی: سر کے کچھ
 تھوڑے سے سفید بال۔
 الشمطوط: عند العمامة: چینا کا خوشہ۔
 دھاگے کا پینا ہو گولا۔
 الشمطاط والشمطوط والشمیط:
 گر وہ۔ گلہ۔ شمساطیط: کہا جاتا ہے
 "جاءوا شمطاطیط: لوگ متفرق آئے۔"
 ثوب شمطاط: پینا ہوا کپڑا۔ الشمطوط:
 لمبا۔
 الشمطالة: گوشت کا کھرا مع چربی کے۔
 شمطه (ض) شمطاً: منع کرنا۔ کچھ نرمی
 اور کچھ سختی سے گفتگو کرنا۔ برا بھلا کرنا اور
 معمولی حرکت دینا۔ الشی: ملانا۔ تھوڑا
 تھوڑا لینا۔

شمع (ف) شمعا وشموعاً وشمعاً:
 کھیل کود کرنا۔ مزاح کرنا۔ صفت (شموع)
 کہا جاتا ہے "أشامع أنت أم جاذ؟ تم مذاق
 کر رہے ہو یا واقعی بات کہہ رہے ہو۔ (.....)
 شموعاً الشی: متفرق ہونا۔
 شمع الشی: پگھلے ہوئے موسم میں غوطہ دینا
 یا اوپر سے ڈالنا۔ الرجل: کھیل کود یا
 مزاح پر اُکسانا۔
 أشمع. السراج: روشنی پھیلانا۔
 الشمع والشمع: موسم بتی۔ واحد شمعة
 وشمعة) شمعاً. الشمع (موم)
 بتی بنانے والا یا بیچنے والا۔ (المشمعة)
 موسم بتی کا کارخانہ یا بکنے کی جگہ۔
 الشماع والشماعة: خوش طبعی۔ ہنسی
 مذاق۔
 الشموع. من النساء: ہنسی مذاق کھیل کود
 والی عورت۔
 الشمعدان: چراغ دان۔ شمعاً
 وشمعدانات: دان فارسی کا کلمہ ہے۔
 شمعدان کے مقابل عربی میں مائيلة: ہے۔
 شمک (شموع) شمکاً: غصے سے بھر جانا۔
 الشمعاً الشمعاً: غصے سے بھر جانا۔
 الشمع فی الطلب: کسی چیز کو ڈھونڈنے
 میں جلدی کرنا اور پھیل جانا۔ الأبل:
 والخیل: اونٹوں اور گھوڑوں کا متفرق ہونا۔
 شمعل وشمعل وشمعل: القوم:
 متفرق ہونا۔ پھیلنا۔ بکھرنا۔ اشمعلت
 الحرب: لڑائی کا بھڑکنا۔ الغارة: ہر
 جانب سے غارت واقع ہونا۔ الأبل:
 اونٹوں کا خوشی میں ہو کر ادھر ادھر متفرق
 ہونا۔ اشمعل الرجل: اوپر سے جھانکنا۔
 بغیر ہنسی مذاق کے گزر جانا۔
 شمق (س) شمقاً: جنون کی حد تک خوش
 ہونا۔
 شمق: شاداں ہونا۔
 الشمافة: جنون۔ شادمانی۔ چستی۔
 الشمیق والشمیق: لمبا۔ شاداں۔

شَمَلَتْ (ن) شَمُولًا. الرُبُوعُ: بادِشَمالی چلنا
 (..... شَمَلًا الشَّمِي: بادِشَمالی کے سامنے کرنا
 بہ: بائیں جانب لینا..... النَخْلَةُ: تیار
 کھجوروں کو چن لینا۔
 شَمَلٌ (ن ض) شَمَلًا. الشَّاةُ: بکری کے
 تھن پر تھملا چڑھانا۔
 شَمِلَةٌ (س) شَمَلًا وَشَمُولًا: چادر میں
 لپیٹنا۔
 شَمِلٌ (س) شَمَلًا وَشَمِلٌ وَشَمُولًا:
 القَوْمُ: بادِشَمالی لگنا۔
 شَمَلٌ (ن) وَشَمِلٌ (س) شَمَلًا
 وَشَمَلًا وَشَمُولًا. الأَمْرُ القَوْمُ: عام ہونا۔
 شام ہونا۔ کہا جاتا ہے "شَمَلٌ القَوْمُ خَيْرٌ"
 او شَرٌّ" اس کی بھلائی یا برائی ساری قوم کو
 عام ہوگی۔
 شَمَلَةٌ تَشْمِيلًا: چھوٹی چادر میں لپیٹنا۔
 شَمَلٌ الرُّجُلُ: جلدی کرنا۔ بائیں ہاتھ سے
 پکڑنا۔
 أَشْمَلٌ. القَوْمُ: بادِشَمالی میں داخل
 ہونا۔ الرُبُوعُ: بادِشَمالی چلنا..... الشَّاةُ: بکری
 کے تھن کے لئے تھملا بنانا..... القَوْمُ خَيْرٌ او
 شَرٌّ: خیر یا شر کو سب کے لئے عام کرنا
 الرُّجُلُ: بڑی چادر والا ہونا۔ أَشْمَلَةٌ:
 بڑی چادر دینا..... النَخْلَةُ: پختہ کھجوروں کو
 چن لینا۔
 تَشْمَلٌ. بِالشَّمْلَةِ: چادر میں لپیٹنا۔
 إِشْمَلٌ: جلدی کرنا..... فِي الحَاجِبَةِ:
 آمادہ ہونا ارادہ کرنا..... بِالقَوْبِ: سارے
 جسم پر لپیٹنا۔ الأَمْرُ عَلَيْهِ: ٹھیرنا۔ احاطہ
 کرنا۔ عَلَيَّ فَلَانٌ: بچانا۔
 إِشْمَلٌ: جلدی کرنا۔ کہا جاتا ہے "إِشْمَلٌ
 فِي حَاجِبِهِ" اس نے اپنی حاجت میں جلدی
 کی۔
 الشَّمَلُ: بمص۔ بادِشَمالی۔ امر مجتمع۔ امر
 متفرق (ضد) کہا جاتا ہے "جَمَعَ اللّٰهُ
 شَمَلَهُمْ" اللہ کے امور متفرق کو جمع کر
 دے۔ و"فَرَّقَ اللّٰهُ شَمَلَهُمْ" اللہ ان کے

اجتماع کو توڑ دے (..... والشَّمَلُ) کھجوروں
 کا کچھا اور بقول بعض کم دانوں والا کچھا۔
 الشَّمَلُ: بمص۔ بادِشَمالی۔ پناہ۔ تھوڑی
 بارش۔ تھوڑی تعداد کھجور آدی وغیرہ کی۔ کہا
 جاتا ہے "أَصَابَنَا شَمَلٌ مِنَ المَطَرِ" ہم
 لوگوں پر تھوڑی بارش ہوئی۔ و"مَاعَلَى
 النَخْلَةِ الإِشْمَلُ" کھجور کے درخت پر
 تھوڑی سی کھجوریں ہیں۔ جِ الشَّمَلُ.
 الشَّمْلَةُ: جسم کو ڈھانکنے والی چادر۔ جِ
 شَمَلَاتٌ أُمَّ شَمْلَةٌ: دینا۔ شراب۔
 آفتاب۔
 الشَّمْلَةُ: لپٹنے کی بیت۔ کہا جاتا ہے "هُوَ
 حَسَنُ الشَّمْلَةِ".
 الشَّمَالُ وَالشَّمَالُ وَالشَّمَالُ وَالشَّمَالُ
 وَالشَّمِيلُ وَالشَّمُولُ وَالشَّمُولُ
 وَالشَّمِيلُ: بادِشَمالی۔ کہا جاتا ہے "هَبَّتْ
 الشَّمَالُ او زَيْجٌ شَمَالٌ: بادِشَمالی چلی۔ جِ
 شَمَالَاتٌ. الشَّمَالُ: بکری کے تھن کا
 غلاف۔ وَالشَّمَالُ۔ جِ أَشْمَلٌ وَشَمُلٌ
 وَشَمَالٌ (بلعظہ والواحد) وَشَمَالٌ:
 بایاں۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ عِنْدِي
 بِالشَّمَالِ" فلاں میرے نزدیک کم رتبہ والا
 ہے۔ و"هُوَ عِنْدِي بِالشَّمَالِ" وہ میرے
 نزدیک اچھے مرتبہ پر ہے۔ الشَّمَالُ: اُتر۔
 بدبختی۔ بکری کے تھن کا داغ۔ کھیتی کا ایک مٹھا
 جس کو ہاتھ میں پکڑ کر کانٹے والا کانٹے۔ طَبِيرٌ
 شَمَالٌ: وہ پرندہ جس سے بدشگونگی کی
 جائے۔ نَافَقَةٌ شَمَالٌ: تیز رفتار اونٹنی۔
 الشَّمَالُ: جِ شَمَالٌ: سیرت۔ عادت۔
 طبیعت۔ کہا جاتا ہے "لَيْسَ مِنَ الشَّمَالِيِّ أَنْ
 أَعْمَلَ بِشَمَالِيٍّ" میری عادت نہیں کہ بائیں
 ہاتھ سے کام کروں۔
 الشَّمْلَةُ: طبیعت۔ جِ شَمَالِيٌّ.
 الشَّمَلُ: چادر سے لپٹا ہوا۔
 الشَّمُولُ: شراب یا ٹھنڈی شراب۔
 الشَّمَلُ: تھوڑی کھجوروں کا کچھا۔ نَافَقَةٌ
 شَمْلَةٌ: تیز رفتار اونٹنی۔

الشَّمَالُ: بایاں۔
 الشَّمَالَةُ: شکاری کے لئے شکار سے چھیننے کی
 جگہ۔ جِ شَمَالِيٌّ.
 الشَّمَلُ: چھوٹی تلوار۔ نخر پر بھی اطلاق ہوتا
 ہے۔ (..... والشَّمْلَةُ وَالمَشْمَلُ) جسم کو
 ڈھانکنے والی بڑی چادر۔ حَاف۔
 المَشْمُولُ: مٹھ۔ جس پر بادِشَمالی چلی ہو۔
 پسندیدہ اخلاق والا۔
 المَشْمُولَةُ: شراب اور بقول بعض ٹھنڈی
 شراب۔ لَيْلَةٌ مَشْمُولَةٌ: ٹھنڈی رات۔
 اخلاق۔ مَشْمُولَةٌ: بُرے اخلاق۔
 شَمَلٌ. الرُّجُلُ: جلدی کرنا..... النَخْلَةُ:
 پختہ کھجوروں کو چن لینا۔ جَمَلٌ او نَافَقَةٌ
 (شَمَالٌ وَشَمِيلٌ) تیز رفتار اونٹ یا
 اونٹنی۔ وَالشَّمَالُ: بایاں۔
 الشَّمُولُ: کھجوروں یا بارش کی تھوڑی
 مقدار یا آدمیوں کی تھوڑی تعداد۔ جِ
 شَمَالِيٌّ.
 الشَّمَالِيٌّ: شاخ کے سر پر متفرق ٹہنیاں۔
 کہا جاتا ہے "مَاعَلَى النَخْلَةِ إِلاَّ شَمَالِيٌّ"
 درخت خرما پر تھوڑی سی کھجوریں ہیں۔
 وَ"ذَهَبُوا شَمَالِيٌّ" وہ متفرق ہو کر چلے
 گئے۔ "قَوْبٌ شَمَالِيٌّ" پٹھان پکڑنا۔
 شَمَلٌ. إِمْرَأَةٌ (شَمَلٌ) بری عادت والی
 عورت۔
 الشَّمَنْدَرُ وَالشَّمَنْدُورُ: پختہ۔ لَنْگَرْنَا۔
 الشَّمَنْدُورُ وَالشَّمَنْدُورُ: انجن۔ ریل
 گاڑی۔
 شَمَهْدٌ. السَّحْبَانُ: تیز کرنا۔ الخَدِيدُ: پتلا
 کرنا۔
 الشَّمَهْدُ: تیز چیز۔ ہلکا پھلکا۔ تیز دانوں والا
 کتا۔
 شَمَالِيٌّ شَمُولًا. الرُّجُلُ: بلند شان
 والا ہونا۔
 الشَّمَا: موم۔
 شَمْنٌ (ن) شَمًا. المَاءُ عَلَيَّ الشَّرَابُ:
 متفرق چھینا دینا۔ (..... وَأَشْنٌ) الغَارَةُ

عَلَيْهِمْ: چاروں طرف سے لوٹ ڈالنا۔ شَنْتَ (ش) وَأَشْنَتُ وَشَنْتُ الْقَرْبَةَ : مشک پرانی اور خشک ہوتا۔ تَشْنَنُ وَتَشَانُ. الْجِلْدُ: کھال خشک ہوتا۔ سُكْرًا..... جِلْدُ الْإِنْسَانِ: بڑھاپے کے وقت جھری والا ہوتا..... (وَأَشْنُ السِّقَاءُ : مشک پرانی ہوتا۔ تَشَانُ الشَّيْءِ: ہام ملنا۔ إِسْتَشَنَ: دہلا ہونا..... (الْبَيْتُ اللَّيْنُ: دودھ کا خواہش مند ہونا۔ اِسْتَشَنَتِ الْقَرْبَةَ: مشک پرانی ہونا۔ الشَّن: مص - ج شنان و أشنان و (الشنة) چھوٹی پرانی مشک۔ قَسْوَسَ شِنَةً: پرانی کمان۔ کہا جاتا ہے "قَرْبَةُ أَشْنَانٍ" پرانی مشک۔ ہر جڑ کو مشک قرار دے کر أَشْنَانُ : جمع لاتے ہیں۔ الشُّون: مونا۔ دبلا (ضد) بھوکا۔ الشَّيْنُ: دودھ جس پر پانی ڈالا گیا ہو۔ الشَّانُ: ٹھنڈا پانی۔ پانی برسانے والا۔ بَادِلٌ - مَاءٌ شَانٌ: متفرق پانی۔ الشَّانَةُ: مشک یا درخت سے چکنے والا پانی۔ الْأَشْنَانُ: ایک قسم کی گھاس جو ہاتھ دھونے کے کام آتی ہے۔ شَانًا (ف) وَشَيْئًا (س) شَانًا وَشَانًا وَشَانَةً وَشَانَانًا وَشَانَانًا وَمَشَانًا وَمَشَانَةً وَمَشُونَةً. الرَّجُلُ: بغض رکھنا۔ دشمنی کرنا۔ نَفَرْتُ كَرْنَا - مَعْتِ قَاعِلٌ (شائنی) ج شَانًا: مَوْنَتُ شَانَةٍ - شَوَابِي وَمَعْتِ مَعْوَلِي (مَشُونَةٌ) شَيْئًا (س) شَانَةً. الشَّيْءُ: کالنا..... حقہ وَبِحَقِّهِ: اقرار کر کے دینا۔ شَيْئًا: جمیل ہوتے ہوئے مکروہ ہونا۔ تَشَانًا. الْقَوْمُ: ایک دوسرے سے بغض رکھنا۔ الشَّانَةُ: بغض۔ دشمنی۔ الشَّوَابِي: شائنتہ: کی جمع۔ شَوَابِي الْمَالِ : ایسے اموال جن کے لئے نخل نہ کیا جائے۔ الشَّانُ: بغض رکھنے والا۔ مَوْنَتُ شَانَةٍ وَشَانًا. رَجُلٌ (شَائِنَةٌ) بغض رکھنے والا	مرد۔ الْمِشْنَانُ: وہ شخص جس سے لوگ بغض رکھیں۔ ایسے امور کا ارتکاب کرنے والا جن کی وجہ سے لوگ دشمنی کریں۔ الْمِشْنَانُ: قبیح (واحد جمع مذکر مؤنث سب کے لئے ہے) لوگوں سے دشمنی کرنے والا۔ شَنِبٌ (س) شَنِبًا. الْيَوْمُ: ٹھنڈا ہوتا۔ صَفْتٌ (شَابِبٌ وَشَيْبٌ) اور اِسْمٌ (الشَّيْبَةُ) الرَّجُلُ: سفید خوبصورت دانتوں والا ہوتا۔ صَفْتُ (أَشْنَبٌ وَشَابِبٌ وَشَنِبٌ وَمِشْنَبٌ) الْمِشَابِبُ: خوشبودار مرد۔ الشَّيْبَاءُ: سفید خوبصورت دانتوں والی عورت۔ انار کی ایک قسم جس میں گھٹلی نہیں ہوتی صرف رس ہی رس ہوتا ہے۔ شَنْتٌ. الْهَوَى قَلْبَهُ: محبت کا دل میں جاگزیں ہونا۔ الشَّيْبُ وَالشَّابِبُ: شیر۔ سخت۔ شَنْبَلَةٌ شَنْبَلَةٌ: پور دینا۔ الشَّيْبَةُ: فاکل۔ شَنْتَرٌ. قَوْمُهُ: کپڑے کو کھڑے کھڑے کرنا۔ الشَّيْبَةُ: انگلی۔ دو انگلیوں کے درمیان کا حصہ۔ ج شَنْبَاتِرٌ کہتے ہیں "لَا ضَمَمَكَ ضَمَّ الشَّابِتِرِ" یعنی میں تجھ کو انگلیوں کی طرح ملاؤں گا۔ شَنِجٌ (س) شَنِجًا وَأَشْنَجٌ وَتَشْنَجٌ وَأَشْنَجٌ. الْجِلْدُ: کھال کا گرمی یا سردی سے سُكْرًا۔ جھری دار ہونا۔ جلد کی صفت (شَنِجٌ اور صاحب جلد کی صفت) (شَنِجٌ وَأَشْنَجٌ) شَنِجَةٌ: سکیڑنا۔ الشَّنَجُ: مص۔ اُونٹ۔ شَنْجٌ. عَلَيْهِ: بُرَا بھلا کہنا۔ الشَّنَاحُ وَالشَّنَاجِي وَالشَّنَاجِي وَالشَّنَاجِيَّةُ: مونا اور لمبا اُونٹ۔ مَوْنَتُ شَّنَاجِيَّةُ. شَنْخٌ. النَّخْلُ: درخت خرما سے کانٹے دور	کرنا۔ الْمِشْنَاخُ: پہاڑ کی لوک۔ الْمِشْنَاخُ وَالشَّنْخُوبُ وَالشَّنْخُوبَةُ : پہاڑ کی چوٹی۔ ج شَنْخِيْبٌ. الشَّنْخُوبُ: کندھے کے اوپر کا حصہ۔ ریڑھ کی ہڈی۔ الشَّنْخَقَةُ: بکتر و غرور۔ الشَّنْخُفُ: لمبا مونا۔ الشَّنْخِيفُ: مونا آدمی۔ الشَّنْخِمُ: مونا۔ الشَّنْذُخُ: گٹھے بدن کا مضبوط لمبا۔ شیر۔ سفر سے واپسی یا عمارت کی تیاری کی دعوت۔ رَجُلٌ شَنْذِيْرَةٌ وَشَنْذَارَةٌ: گندی زبان والا مرد۔ شَنْرٌ. عَلَيْهِ: عیب لگانا۔ رموا کرنا۔ الشَّنَارُ: عار۔ بدترین عیب۔ الشَّيْبِيُّ وَالشَّيْبِيْرَةُ: بدخلق۔ بڑا شیر۔ بڑا شبی۔ الشَّنَارِيُّ: بلی۔ شَنْزٌ. الشَّوْبِيْرُ وَالشَّيْبِيْرُ: کلونجی۔ الشَّنْزُبُ: بہت سخت۔ شَنْزَرٌ شَنْزَرَةٌ. الرَّجُلُ: سخت ہونا۔ الشَّنْزَرَةُ: مص۔ سختی۔ الشَّيْبِيْنَةُ: عادت۔ طبیعت۔ گوشت کا کھانا۔ ج شَنَّاشِيْنٌ. الشَّنْشِنَةُ: کاغذ یا نئے کپڑے کی حرکت کی آواز۔ شَنْصٌ (ن) شَنِصٌ (س) شَنْوَصًا. يَهْدُ: چیننا۔ فَرْسٌ (شَنَّاصٌ وَشَنَّاصِيٌّ وَشَنَّاصِيٌّ وَشَنَّاصِيَّةٌ) عمدہ مضبوط لمبا گھوڑا۔ الشَّنْصَرَةُ وَالشَّنْصِيْرُ: موناٹی سختی۔ الشَّنْصِيْرُ: چائے پناہ۔ الشَّنْطُ: کپے ہوئے گوشت کے کھڑے۔ الشَّنْطُ: بھنا ہوا گوشت۔ شَوَاءٌ مُشْنَطٌ: اچھی طرح سے نہ بھنا ہوا۔ شَنْطٌ. الشَّنْطُ: الجَبَلُ: پہاڑ کی چوٹی۔ کہا جاتا ہے "أَمْرًا ذَاتَ شِنَاطٍ" گٹھے بدن والی پر گوشت عورت۔
---	--	--

الشُّنْبُ: لہا و خوبصورت۔

شُنْبُرٌ بِهيم: گالی دینا۔ شُش بکنا۔

الشُّنْظِيرُ وَالشُّنْظِيرَةُ وَالشُّنْظُورَةُ: بدلتی

چٹان جو پہاڑ سے پھٹ کر گرے۔

شِبْظِيرَةُ كِي جَمْعُ شُنْظِيرٍ. شُنْظِيرُ الْجَبَلِ:

پہاڑ کے اطراف۔

الشُّنْظُوفُ: ہر چیز کی شاخ۔

شُنْظِيٌّ. يَهْ بِرَا بَهْلَا سَنَا۔

شُنْظُورَةُ الْجَبَلِ: پہاڑ کی چوٹی۔ پہاڑ کا

کنارہ۔ رَجْ شُنْظَا۔

شَنْعُهُ (ف) شَنْعًا: قَبِيحٌ سَجَمًا۔ گالی دینا۔

رَسَاوَا كَرْنَا۔

شَنِيعٌ (س) شَنْعًا. يَهْ قَبِيحٌ سَجَمًا۔ کہا جاتا ہے

”رَأَى أَمْرًا شَنِيعًا بِهِ“ اس نے ایسا معاملہ

دیکھا جس کو قبیح سمجھا۔

شَنْعٌ (ك) شَنْعًا وَشَنْعًا وَشَنْعًا

وَشَنْعًا: قَبِيحٌ هُوَا۔ صَفْتٌ (شَنْعٌ) رَجْ شَنْعٌ

وَشَنْعٌ وَشَنْعٌ

شَنْعُ الرَّجُلِ: بہت برا بھلا کہنا۔ عَلَيْهِ

الْأَمْرُ: قَبِيحٌ قَرَارٌ دِينَا۔ الرَّجُلُ: آمَادَةٌ وَتِيَارٌ

هَوَا۔ (.....) وَشَنْعٌ الْبَعِيْرُ: دُوْرُنِي فِي

كُوْشِ كَرْنَا۔

تَشَنْعٌ: دُوْرُنِي فِي كُوْشِ كَرْنَا۔ لِيْلَامُوْ: تِيَارٌ

هَوَا۔ السِّلَاخُ: بَهْمِيَارٌ يَهْبِنُنَا۔ الْغَازَةُ:

لُوْثٌ ذُو الْنَا۔ السَّقُوْمُ: اِخْتِلَافٌ رَائِي كِي

وَجِدْ سَخْرَابٌ حَالَتٌ وَآلِي هَوَا۔ الرَّجُلُ:

بِرِي كَامٌ كَارَادَةٌ كَرْنَا۔ الْفَرَسُ: گھوڑے

پَرَسَاوَا هَوَا۔ جَرْحُنَا۔ السُّوْبُ: کپڑے کا

بُوْسِيْدَةٌ هَوَا۔

اِسْتَنْعَهُ: قَبِيحٌ سَجَمًا۔ كَرُوْهُ سَجَمًا۔

الشُّنْعَةُ وَالشَّنَاعَةُ وَالشُّنُوعُ: قَبِيحٌ۔

المُشْنَعُ: قَبِيحٌ۔ بِي حَقِيْقَتِ خَبْرُوْا كَا

يَهْمِيْلَانِي وَاللَا۔

المَشْنُوعُ: مِصْ۔ بَرَائِي فِي مَشْهُورٍ۔

الشُّنْعَابُ: لِيْعِي قَدْوَا مَتٌ كَامِرِدٌ۔

الشُّنْعُوْفُ وَالشُّنْعَاْفُ: پھاڑ کی چوٹی۔ بلند

پھاڑ۔ لہا و کز و رمرود۔

الشُّنْعَفَةُ: لہائی۔

شُنْفٌ (ن ض) شُنْفًا. اِلَيْهِ تَعَجُّبٌ يَا

اعْتِرَاضٌ كِي نَظَرٌ وَدِيْكِنَا۔

شُنْفٌ (س) شُنْفًا. فُلَانًا اَوْرِلْفُلَانٍ: بَغْضٌ

رَكِنَا۔ لَهْ: كَبْهٌ جَانَا۔ يَهْ تَاوْرَجَانَا۔ كِنْكَلْهِي

شُنْفٌ. الْكَلَامُ: مَزِيْنٌ كَرْنَا۔ اِلَيْهِ: كِنْكَلْهِي

سِي دِيْكِنَا (.....) وَاشُنْفٌ الْجَارِيَةُ: لَزْكَ

كِي لِيْعِي رَنگ بِنَا۔ بَالِي بِنَا۔

تَشُنْفٌ. الْجَارِيَةُ: لَزْكَ كَا اِيْزِرَنگ يَهْبِنَا۔

بَالِي يَهْبِنَا۔

الشُّنَافُ: فَا۔ اِعْرَاضٌ كَرْنِي وَاللَا۔ كَبَا جَانَا

هِي ”اِنَّهُ لَشَايِفٌ عَنَّا بِاَنْفِهِ“ وَهِي اِيْزِرَنگ يَهْبِنَا

هِي سِي بَرْتَرَجَمْتَا۔

الشُّنْفُ: مِصْ۔ بَالِي۔ اِيْزِرَنگ۔ رَجْ

شُنُوفٌ وَاشُنَافٌ.

الشُّنِيفُ: بَغْضٌ رَكْنِي وَاللَا۔

شُنْقٌ (ن ض) شُنْقًا. الْبَعِيْرُ: سَوَارِ هُوْنِي

كِي حَالَتٌ فِي لَمَامٌ كَبْهِنِيَا (.....) الْقَرِيْبَةُ: مَشْكٌ كُو

سَرِي بَانْدَه كَر دُوْنُوْا ہاتھوں سے سر بند کو

پکڑنا۔ وَاسِ السَّدَابِيَّةُ: دَرَخْتٌ يَاوْنِي

كَبْهُوْنِي سِي جَانُوْر كِي سَرُو بَانْدَهْنَا اَوْر اِي

سِي مَوْلِدِيْن كِي نَزْدِيْكٌ لَفْظٌ ”الشُّنْقُ“ هِي

جِس كِي مَعْنِي كَرْمٌ كُو بھانسی دینے کے ہیں

..... الشُّيُّ: لِنَا كَا۔ الْخَلِيَّةُ: شَهِدٌ كِي چھتے

مِي لَزْكَ ذُو الْنَا۔

شُنْقٌ (ض) شُنْقًا وَشِنْقٌ (س) شُنْقًا: كِسِي

چيز سے محبت کرنا اور گردیدہ ہو کر رہنا۔

شُنْقٌ. الشُّيُّ: كَلَرِي كَلَرِي كَرْنَا۔ الْخَلِيَّةُ

: شَهِدٌ كِي چھتے مِي لَزْكَ ذُو الْنَا۔

أَشْنَقُ. الْبَعِيْرُ وَالْقَرِيْبَةُ: بِمَعْنِي شُنْقُ الْبَعِيْرُ

وَالْقَرِيْبَةُ..... الْبَعِيْرُ: أُوْنْتٌ كَا سَرَا هَمَانَا.....

عَلِي فُلَانٍ: دَسْتٌ دَرَا زِي كَرْنَا..... الرَّجُلُ:

خُوْنٌ بَهَا لِيْمَا يَا خُوْنٌ بَهَا وَآبٌ هَوَا۔ (ضد)

..... الشُّيُّ: لِنَا كَا..... غَنَمَهُ اِلِي غَنَمٌ زَبَدٌ:

مَلَا كَر بَرَا حَانَا..... اَلْيَدُ اِلِي الْعُنُقِ: ہاتھ کا گلے

مِي گھیرا ڈالنا۔

شَانِقَةٌ مُشَانِقَةٌ وَشِنَاقًا: اِيْزِرَنگ كُو كِسِي كِي

مال سے ملانا۔

تَشَانِقًا: اِيْزِرَنگ كُو دُوْسَرِي كِي مَال سِي

مَلَانَا۔

الشُّنْقُ: مِصْ۔ تَاوَانٌ زَخْمٌ۔ رَسِي۔ سَرَكِي

لہائی۔ گھڑی۔

الشُّنَاقُ: مِصْ۔ مَشْكٌ كَا بِنْدَهْمِن۔ تَانَتٌ سَرَكِي

لہائی۔ ہر وہ ڈوری جس سے کوئی چیز لٹکانی

جائے۔ رَسِي جس سے اُوْنْت كِي سَرُو كُو بھانچیا

جائے۔ ہاتھوں کو موٹھروں سے ملا کر

باندھنے کی رسی۔ رَجْ شُنْقٌ وَاشُنِقَةُ.

الشُّنْبُ (وَالشُّنْقُ) مَشْتَقٌ وَخَوَامِشٌ مَمْدُوْل۔

رَجْ أَشْنَقِي. فَرَسٌ (أَشْنَقٌ) لِيْعِي سَرُو كَا گھوڑا اور

اِيْسا يَبْعِيْرٌ أَشْنَقٌ: مَوْتٌ شَنْقَاءٌ وَشَنْقَاءٌ.

الشُّنْقَاءُ: وَهِي بَرِيْدَةٌ جَوَابِيْعِي بِيْجُو كُو چوگا دے۔

الشُّنَيْقِيُّ: بِيْجَانَسِي دِيَا هَوَا۔ وَهِي لَزْكَ جِس پَر تھوڑا

سَا شَهِدٌ لَمَامٌ كَر چھتے مِي رَكْھ دِيْعِي تِي۔ مَنْدُوْلَا

بِيْنَا۔

الشُّنَيْقِيُّ: خُوْد پَسِنْدَا۔ الشُّنَيْقِيَّةُ: عَمَلٌ بَا ز

عَمُوْرَت۔

الْمُشْنَكُلُ: رَجْ شُنَا كَلِي: دَرْدَا زَهِيَا كَبْھُرِي كَا

دَسْتٌ بِنْد كَرْنِي اَوْر كَبْھُوْلِي كِي لِي۔ كَبْھُرِي

لِنَا كِي لِي كِي لِي۔

المِشْنَاقُ: ہر چیز کی طرف نظر ڈالنے والا۔

شَنْمٌ (ن) شَنْمًا. الْجِلْدُ: خِرَاسٌ لَمَامٌ۔ مَاءٌ

(شَنْمٌ) شَحْمًا پانی۔

الشُّنْمُ: كَلِي ہونے کا ن والے۔

الشُّنْمُ: چنگاری جو اڑے۔ کہا جاتا ہے

”فُلَانٌ يَطْطَا يُوْ شَنْمَةً“ فُلَانٌ سِي غَمَمِي كِي وَج

سِي چنگاری اڑ رہی ہے۔

شَنْهَقٌ اَوْ شَهْنَقٌ. الْحَمَارُ: گدھے کا

دُشْمِيْعُوْ دُشْمِيْعُوْ كَرْنَا۔ يَكَلَمُهُ عَوَامٌ كِي نَزْدِيْكٌ

هِي۔ رَجْ لَفْظٌ نَهَقٌ يَا شَهَقٌ هِي۔

الشَّانِيَةُ: بَرَا جَلِي جَبَا ز۔ رَجْ شَوَانٌ (مَفْرُوْدَا

اِسْتِمَالٌ نَادِرٌ هِي۔)

شَهْبٌ (س) وَشَهْبٌ (ك) شَهْبًا:

سِي اِيْ مَلِي ہونے کی سفید رنگ والا ہونا۔ صَفْتٌ

(شَاهِبٌ وَآشَهْبٌ) عَامٌ أَشَهْبٌ: شُكٌ

سال۔ یَوْمَ أَشْهَبُ: ٹھنڈی ہو اور پالے کا دن۔ جَيْشُ أَشْهَبُ: قوی و مضبوط لشکر۔ ج شَهَبٌ۔

شَهْبَةٌ (ف) شَهْبًا وَشَهْبَةً. الْحَرُّ: گرمی کا مجلس دینا۔

أَشْهَبَ. الْعَامُ الْقَوْمِ: قوم کے اموال کو تباہ کر دینا۔

إِشْهَبٌ وَإِشْهَابٌ وَإِشْهَبٌ: سیاہی ملی ہوئی سفید رنگ والا ہونا۔ الزَّرْعُ: خشک و زرد ہونا اور کچھ بھری باقی رہنا۔

الشَّهَبُ: مِصْرٌ۔ برف سے ڈھکا ہوا پہاڑ۔ الشَّهْبُ وَالشَّهْبَةُ: سفیدی جس میں کچھ کچھ سیاہی ملی ہوئی ہو۔

الشَّهَابُ: آگ کی چمک۔ ٹوٹا ہوا تارہ۔ تارہ۔ تیزہ کا پھل۔ ج شَهْبٌ وَشَهْبَانٌ

وَشَهْبَانٌ وَأَشْهَبٌ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ شَهَابٌ حَرْبٌ" جبکہ جنگ میں کود پڑنے والا ہو۔

الأَشْهَبُ: شیر۔ دشوار کام۔

الشَّهْبَاءُ أَشْهَبُ كَامَوْثٌ: شہر حلب کا لقب مِنْ الْكُتَابِ: بہت ہتھیاروں والا بڑا لشکر۔ سَنَةُ شَهْبَاءٍ: بغیر بارش اور بھری کے خشک سال یا بہت برف والا سال۔

الشَّهَابُ وَالشَّهَابَةُ: دودھ جس میں دو تہائی پانی ملا ہو ہو۔

الأَشْهَابُ: مندرجہ کی اولاد۔ الشَّاهِرُ وَالشَّهْرُ شَاهِرَةٌ۔

شَهْدٌ (س) شُهُودًا. الْمَجْلِسُ: حاضر ہونا الشَّيْءُ: معائنہ کرنا۔ اِطْلَاعًا

الْجُمُعَةُ: پانا عَلَيَّ كَذَا: گواہی دینا۔ صفت (شاهد) ج شُهُودٌ وَشَهْدَةٌ۔

شَهِدَ (س) وَشَهَدَ (ك) شَهَادَةً. عِنْدَ الْحَاكِمِ فَلَانٌ أَوْ عَلَيَّ فَلَانٌ: گواہی دینا۔

صفت (شاهد) ج شَهِدٌ وَشُهُودٌ وَأَشْهَادٌ. شَهِدَ اللَّهُ: جاننا یا قبول فرمانا۔ شَهِدَ بِكَذَا: قسم کھانا۔

شَاهِدَةٌ مُشَاهَدَةٌ: معائنہ کرنا۔

أَشْهَدُهُ: حاضر کرنا۔ أَشْهَدُ فَلَانًا عَلَيَّ كَذَا: گواہ بنانا۔

اسْتَشْهَدُهُ: گواہی دینے کو کہنا۔ اسْتَشْهَدِيهِ: گواہی کے معاملہ کو مدد دینا۔

أَشْهَدُ وَأَسْتَشْهِدُ: اللہ کے راستہ میں قتل ہونا۔

تَشْهَدُ: گواہی طلب کرنا الْمُسْلِمُ: التَّحِيَّاتُ پڑھنا۔

الشُّهْدُ وَالشَّهْدُ: شہد جو موم سے جدا نہ کیا گیا ہو۔ ج شُهَادَةٌ (الشُّهْدَةُ وَالشَّهْدَةُ) اس سے خاص ہے۔

الشَّهَادَةُ: مِصْرٌ۔ یقینی خبر۔ گواہی۔ قسم۔ اللہ کے راستہ میں قتل ہونا۔ عالم ظاہر جو عالم غیب کے مقابل ہے۔

الشَّاهِدُ: فَا۔ زبان اور اسی سے قول ہے "مَسْأَلَةُ زَوَاءٍ وَلَا شَاهِدَ" یعنی اس کے لئے نہ تو حسن منظر ہی ہے نہ زبان۔ قوام۔ تارہ۔ صَلَاةٌ

الشَّاهِدُ: مغرب کی نماز۔ وہ عبارت جو کسی قاعدہ نحو وغیرہ کے ثابت کرنے کے لئے نقل کی جائے۔ الشَّاهِدُ مِنَ الْأُمُورِ: جلدی۔

الشَّاهِدَةُ. الشَّاهِدُ: كَامَوْثٌ۔ زمین۔ ج شَاهِدَاتٌ وَشَوَاهِدٌ۔

الشَّهِيدُ وَالشَّهِيدَةُ: حاضر۔ گواہی میں امانت دار۔ وہ ذات جس کے علم سے کوئی چیز غائب نہ ہو۔ اللہ کی راہ میں مقتول۔ اِم (الشَّهَادَةُ) ج شَهْدَاءُ مَوْتٌ شَهِيدَةٌ۔

الْمَشْهَدُ: لوگوں کے حاضر ہونے کی جگہ۔ لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ۔ اللہ کی راہ میں مقتول ہونے کی جگہ۔ ج مَشَاهِدٌ۔

الْمَشْهَدَةُ وَالْمَشْهَدَةُ: لوگوں کے حاضر ہونے کی جگہ۔

الْمَشْهَدُ: اللہ کے راستہ کا مقتول۔

الْمَشْهَدُ: فَا۔ اِمْرَأَةٌ مُشْهَدَةٌ: وہ عورت جس کا شوہر موجود ہو اور اس کا مقابل

"اِمْرَأَةٌ مَعِيَّةٌ" ہے۔ یعنی وہ عورت جس کا شوہر غائب ہو۔

الْمَشْهُودُ: مِصْرٌ۔ جمع کادن۔ قیامت کا

دن۔ عرفہ کادن۔

شَهْدَرٌ شَهْدَرَةٌ. الْعِلَامُ او الْجَارِيَةُ: لڑکے یا لڑکی کا تین اور چھ سال کے درمیان حرکت کرنا۔

الشَّهْدَرُ: دولت مند۔ مَوْنَةٌ شَهْدَرَةٌ. الشَّهْدَارَةُ: بد زبان۔ نَسَادٌ كَغَيْزٍ۔ گھٹے بدن کا پتہ قد۔

شَهْرَةٌ (ف) شَهْرًا وَشَهْرَةٌ. بِكَذَا: مشہور کرنا۔ شَهْرٌ وَشَهْرٌ الشَّيْفُ: تلوار کو سونت کر بلند کرنا۔ وَشَهْرٌ فَلَانًا: رسوا کرنا۔

أَشْهَرُ: ایک مہینہ کسی حال میں ہونا۔ کہا جاتا ہے "أَشْهَرْنَا فِي هَذَا الْمَكَانِ" ہم نے اس جگہ ایک مہینہ قیام کیا۔ أَشْهَرَتِ الْمَرْأَةُ: ولادت کے مہینے میں داخل ہونا الْأَمْرُ: ظاہر کرنا مشہور کرنا۔

شَاهِرَةٌ شَهَارًا وَمُشَاهَرَةٌ: ماہواری پر معاملہ کرنا۔

إِشْتَهَرَ. الْأَمْرُ: مشہور ہونا الْأَمْرُ: مشہور کرنا بِالْفَضْلِ: فضیلت میں مشہور ہونا۔

الشَّهْرُ: ماہ۔ کسی سال کے کل ماہ بیچ ایام درج ذیل: کانون الثانی (۳۱ دن)۔ شَبَاط (۲۸ دن)۔ یپ سال میں (۲۹ دن) اذار (۳۱ دن) نیسان (۲۰ دن) ایار (۳۱ دن) حزیران (۳۰ دن) تموز (۳۱ دن) آب (۳۱ دن) ایلول (۳۰ دن) نثرین الاول (۳۱ دن) نثرین الثانی (۳۰) کانون الاول (۳۱)۔

یعنی جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر۔

محرم (۳۰ دن) صفر (۲۹ دن) ربیع الاول (۳۰ دن) ربیع الثانی (۲۹ دن) جمادی الاول (۳۰ دن) جمادی الاخرہ (۲۹ دن) رجب (۳۰ دن) شعبان (۲۹ دن) رمضان (۳۰ دن) شوال (۲۹ دن) ذوالقعدہ (۳۰ دن) ذوالحجہ (۲۹ دن) عربوں کے نزدیک حرمت والے چار ماہ ہیں: ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم اور رجب۔

الشُّهُرُ: بمص - دانا - نیا چاند - چاند - مہند -
 نج اشہر و شہور۔
 الشُّهُرَة: شہرت - برائی میں مشہوری -
 رسوائی -
 الشُّہیر: مشہور - نامور - مؤنث شہیرۃ۔
 المَشْهُورُ: مشح - شہرت یافتہ - مؤنث
 مَشْهُورَة۔
 الشُّهْرَبُ: بڑی عمروالا - مؤنث شہْرَبَة :
 درخت خرما کے نیچے کا چھوٹا حوض -
 شَهَقٌ (ف ض) و شَهَقٌ (س) شَهَقًا
 و تَشَهَقًا. الجَمَارُ: گدھے کا رنگنا
 شَهَقًا و تَشَهَقًا (شَهَقًا) الرَّجُلُ: رونے
 میں سکی لینا - (..... شَهْوَقًا) الجَبَلُ و غَيْرُهُ
 : پہاڑ وغیرہ کا بلند ہونا - صفت (شَاهِقٌ) اور
 تم کہتے ہو "شَهَقْتُ عَيْنِي عَلَيْهِ" جبکہ تم کو
 کوئی چیز پسند آئے اور تم اس پر نظر جمادو -
 تَشَهَّقٌ عَلَيْهِ: نظر جمادینا -
 الشُّهْقَة: اسم مرۃ - جج -
 الشَّاهِقُ: فا - ذو شاہقی: زیادہ غضبناک -
 التَّشَهَاتُ: بمص - کہا جاتا ہے "طَحَّكَ
 تَشَهَاتٌ" زور کی ہنسی - وصف بالمصدر کی بنا
 پر -
 شَهْلٌ (س) شَهْلًا و اشْهَلُ اِشْهَالًا:
 آنکھ میں سیاہی مائل برسنی ہونا - صفت
 (اشْهَلٌ) مؤنث شَهْلَاءُ: ج شَهْلٌ: آنکھ کی
 صفت بھی شَهْلَاءُ: واقع ہوتی ہے -
 شَاهَلَةٌ مَشَاهَلَةٌ: گالی گلوچ کرنا -
 تَشَهَّلٌ: بے رونق چہرہ والا ہونا -
 الشَّهْلُ و الشَّهْلَة: آنکھ کی سیاہی مائل
 برسنی -
 الشَّهْلَاءُ: حاجت - کہا جاتا ہے "قَضَيْتُ
 مِنْ فُلَانٍ شَهْلَاتِي" فلاں میں سے میں نے
 اپنی حاجت پوری کی -
 الشَّهْلَةُ: بڑھیا -
 شَهْمٌ (ف ن) شَهْمًا و شُهْمًا. الفَرَسُ:
 ڈانٹا الرَّجُلُ: گھیرا دینا - خوفزدہ کرنا -
 شَهْمٌ (ک) كَشَهَمَةً و شُهْمَةً: تیز فہم

ہونا - ذکی ہونا -
 الشَّهْمُ: تیز خاطر - ذکی - سردار جس کا حکم
 جاری ہو - ج چالاک گھوڑا - ج شُهْمٌ۔
 الشَّيْمُ: زبستی - ج شَيَاهِمُ۔
 الشَّهَامُ: غول بیابانی -
 الشَّيْهَمَة: بڑھیا -
 المَشْهُومُ: تیز خاطر - ذکی - خوفزدہ -
 الشَّاهِنُ: ایک شکاری پرندہ - ج شَوَاهِينُ
 و شَيَاهِينُ: ترازو کا عمود -
 شَهَا يَشْهُوُ و شَهِي يَشْهِي شَهْوَةً
 و اشْتَهَى. الشَّيْ: خواہش کرنا - رغبت
 شدید کرنا -
 شَهْوٌ يَشْهُوُ. الطَّعَامُ: لذیذ ہونا -
 شَهِي الرَّجُلُ: خواہش کرنے پر اُکسانا
 عَلَيْهِ كَذَا: طلب کرنا - کہا جاتا ہے
 "هَذَا الشَّيْ يَشْتَهِي الطَّعَامُ" یہ چیز کھانے
 کی خواہش بڑھاتی ہے -
 شَاهَا: مشاہیہ ہونا -
 اشْتَهَاهُ: خواہش کے مطابق دینا - نظریہ
 لگانا -
 تَشَهَّى. الشَّيْ: خواہش کرنا عَلَيْهِ
 كَذَا: بار بار خواہش کرنا -
 الشَّهْوَة: بمص - خواہش - ج شَهْوَاتُ
 و شَهْوِيٌّ۔
 الشَّهَاءُ: بہت خواہش کرنے والا -
 الشَّهِي: خواہش مند (..... و المَشْتَهِي)
 مرغوب - کہا جاتا ہے "شَيْ شَهِي" لذیذ
 چیز -
 الشَّهْوَانُ: مؤنث شَهْوَى ج شَهَاوِيٌّ
 و (الشَّهْوَانِي) خواہش مند -
 الشَّاهِيَة: خواہش -
 شَابٌ يَشُوبُ شُوبًا و شِيَابًا. الشَّيْ: ملا تا
 الرَّجُلُ: خیانت کرنا - دھوکا دینا (.....
 و شُوبٌ تَشُوبًا) غَنَةٌ: آہنگی سے ہٹانا -
 اِنْشَابٌ اِنْشِيَابًا و اِشْتَابٌ اِشْتِيَابًا: ملنا -
 الشُّوبُ: بمص - وہ چیز جو دوسرے سے
 ملائی جائے - گندھے ہوئے آٹے کا بیڑا -

شہد -
 الشُّوبَة: اسم مرۃ - دھوکا -
 الشَّائِبَةُ. الشَّائِبُ: کاموٹ اور شوائب کا
 واحد - بمعنی عیوب -
 الشَّيَابُ: بمص - ملاوٹ -
 كَيْلَةُ (الشَّيْبَاءِ) مینے کی آخری رات -
 المَشُوبُ و المَشِيْبُ: ملا ہوا -
 المَشَاوِبُ: بوسل کا ٹلاف - ج مَشَاوِبُ.
 شَوْحُ الشَّيْ: انکار کرنا - نہ پہچاننا -
 الشُّوْحَة: جیل - ایک درخت جس کی
 شاخیں مخروطی شکل کی ہوتی ہیں اور یہ
 (الشُّوْح) کا واحد ہے -
 الشُّوْحَطُ: ایک درخت جس کی لکڑی سے
 کمان بنائی جاتی ہے - واحد (الشُّوْحَطَة)
 شُوذَّت. الشَّمْسُ: نائل بغروب ہونا -
 شُوذَّ السَّحَابُ الشَّمْسُ: ڈھانکنا - گھیر
 لینا -
 ہ: کسی کو عامہ باندھنا -
 تَشَوَّذٌ و اِشْتَاذٌ: گڑھی باندھنا -
 الاِشْتَاوِذُ: مخلوق - کہا جاتا ہے "هُوَ خَيْرُ
 الاِشْتَاوِذِ" وہ مخلوق میں بہتر ہے -
 المِشْوُذُ و المِشْوَاذُ: عمامہ - بادشاہ -
 سردار - ج مَشَاوِذُ و مَشَاوِنِدُ۔
 حَارٌ يَشُورُ شُورًا و شِيَارًا و شِيَارَةً و مَشَارًا
 و مَشَارَةً. العَسَلُ: چھتے سے شہد نکالنا -
 صفت مفعولی (مَشُورٌ) (..... شُورًا
 و شِيَارًا) الذَّابَّةُ: جانور کو سدھانا - تجربہ کے
 لئے سوار ہونا - خریدار کو دکھانے کے لئے
 سوار ہونا -
 شَارَتِ الْاِبِلُ: اُونٹ کا مونا و خوبصورت
 ہونا -
 شُورٌ. الذَّابَّةُ: جانور کو سدھانا - تجربہ کے
 لئے سوار ہونا - خریدار کو دکھانے کے لئے
 سوار ہونا بِه: شرمندہ کرنا اِلَيْهِ:
 اشارہ کرنا -
 النَّارُ و النَّارُ: آگ کو بلند کرنا -
 اَشَارَ. العَسَلُ و الذَّابَّةُ: بمعنی شَارَهُمَا.....

النَّارِ وَالنَّارِ: آگ کو بلند کرنا..... بہ :
پہنچانا۔ اَشَارَ إِلَيْهِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ: اشارہ کرنا
..... عَلَيْهِ: حکم دینا۔ نصحت کرنا۔ صحیح طریقہ
بتانا..... فَلَانًا: غسلاً: شہد نکالنے میں مدد
دینا۔
أَشَوَّرَ إِشْوَارًا. النَّارِ وَالنَّارِ: آگ کو بلند
کرنا۔
شَاوَرَةً. فِي الْأَمْرِ: مشورہ طلب کرنا۔
شَارَاتِ الزُّنُكِ: عزت کے شعار ٹوپیوں
پر یا گل کی دیواروں پر۔
إِشَارًا إِشْيَارًا. الْعَسَلِ: شہد نکالنا۔
إِشَارَاتِ الْإِبِلِ: اونٹ کا کچھ موٹا ہونا۔
تَشَوَّرَ: شرمندہ ہونا۔
تَشَاوَرًا وَإِشْوَارًا. الْقَوْمِ: باہم مشورہ کرنا۔
إِسْتَشَارَ: عمدہ لباس پہننا۔ الْعَسَلِ: شہد
نکالنا۔ إِسْتَشَارَاتِ الْإِبِلِ: موٹا خوبصورت
ہونا۔ إِسْتَشَارَ الْأَمْرَ: واضح و روشن ہونا
.....: مشورہ طلب کرنا۔
الشُّورُ: بھس۔ شہد جو چھتے سے نکالا جائے۔
الشَّارَةُ وَالشُّوْرَةُ وَالشُّوْرَةُ وَالشُّوَارُ
وَالشُّوَارُ وَالشُّوَارُ وَالشُّوَارُ: حسن و
جمال۔ بَيْتٌ: منظر۔ لباس و زینت۔ گھر کا
عمدہ سامان۔ کہا جاتا ہے "رَيْحُ شُوَارٍ" نرم
ہوا۔ "خَيْلٌ شِيَارٌ" خوبصورت موٹے
گھوڑے۔ الشُّوْرَةُ: شہد کا چھتہ۔
الشُّوَارُ: اندام نہانی۔
الشُّوْرَةُ: شارقہ اسم مرثیہ شرمندگی۔
الشُّوْرِيُّ: ایک قسم کی دریائی گھاس۔
الشُّوْرِيُّ: اسم ہے "تَشَاوَرًا" کا یا اَشَارَ عَلَيْهِ
کا۔ مَجْلِسُ شُوْرِي: کونسل و "تَوَكَّرَ عَمْرُ
الْجَلَالَةِ شُوْرِي" کا مطلب یہ ہے کہ
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسئلہ خلافت کو
باہم مشورہ کے لئے چھوڑ دیا۔
الشُّيْرُ: خوبصورت۔ جس سے مشورہ کیا
جائے۔ وزیر۔ رَجُ شُوْرَاءَ.
المَشَارُ: شہد کا چھتہ۔
المَشَارَةُ: قابلِ کاشت زمین کا ٹکڑا۔ رَجُ

مَشَاوِرٌ وَمَشَائِرٌ.
المَشُوْرُ: منع۔ آراستہ۔ حَزِيْنٌ۔
المِشُوْرُ: شہد نکالنے کا آلہ۔ رَجُ مَشَاوِرٍ.
المِشْيِرُ: فَا..... فِي سِيَاطِ أَحْزَابِ
السِّيَامَةِ: کونسل المِشْيِرِيَّةُ: کونسل کا درجہ۔
المِشْيِرَةُ: انگشت سبابہ۔
المَشُوْرَةُ وَالْمَشُوْرَةُ. اَشَارَ عَلَيْهِ: کا اسم
۔ مشورہ۔ نصحت۔ رَجُ مَشُوْرَاتٍ.
الشُّوَارُ: گرنے کے قریب جگہ کا کنارہ۔
المِشُوَارُ: منظر۔ جانوروں کو دکھانے کی
جگہ۔ شہد نکالنے کا آلہ۔ دُحْنُ كِي كَمَانِ كِي
تانت۔ رَجُ مَشَاوِرٍ: کہا جاتا ہے "أَخَذَتْ
الْخَيْلُ مِشْوَارَهَا" یعنی گھوڑے موٹے اور
خوبصورت ہوئے۔
الشُّوْرَةُ: درختوں کی قطار۔ زمین کا طویل
قطعہ۔
المِشْوَارَةُ: شہد نکالنے کی جگہ۔
الشُّوْرِيَّةُ: چاول والی یا بنبری کا شور بہ جو کہ
گوشت کے ساتھ یا گھی کے ساتھ پکا ہو۔
شُوْرٌ. (شِيْرٌ بِهِ شُوْرًا) عَلَي الْمَجْهُوْلِ:
فریفتہ ہونا۔
الاشُّوْرُ: مغرور۔ متکبر۔
المَشُوْرُ: بے آرام۔
شَاشٌ يَشَاشُ وَشَوْسٌ يَشَوْسُ شَوْسًا
وَتَشَاوَسَ: غصہ یا تکبر کی بنا پر ترچھی نظر سے
دیکھنا۔ دیکھنے کے لئے آنکھیں چھوٹی کرنا۔
لڑائی میں بہت دلیر ہونا۔ صفت (أَشَوْسُ)
مَوْتٌ شَوْسَاءٌ. رَجُ شَوْسٍ. الشُّوْسُ: لہجے
اور کہا جاتا ہے "رُؤْسِي فَلَانٌ بِخَطْوِبِ
شَوْسٍ" فلاں کے اوپر سخت مہیشیں پڑیں۔
تَشَاوَسَ تَشَاوَسًا: بپختی شَوْسٍ: سخت و
تکبر ظاہر کرنا۔
شَوْشٌ. الْأَمْرُ: مخلوط کرنا۔ بے ترتیب کرنا۔
تَشَوْشٌ. عَلَيْهِ الْأَمْرُ: مخلوط ہونا۔ گڑبڑ
ہونا۔
تَشَاوَشَ. الْقَوْمُ: گڈمڈ ہونا۔
الشُّوَاشُ: اختلاف و اضطراب۔ رَجُ

عِبَارَةٌ (مَشُوْشَةٌ) تَرْكِيْبٌ يَاعْنَى كَالْحَاظِ
سے نادرست عبارت۔
الشَّاشُ: روٹی کی چادر۔ رَشْمٌ كِي مِجْرِي۔
الشَّوْشُ: سارجٹ۔ (جدید)
الشَّاشَةُ الْبَيْضَاءُ: سیمیا کی سفید سکرین۔
شَاصَةٌ يَشَوْصُهُ وَيَشَاصُهُ شَوْصًا: جگہ
سے بلانا۔ ہاتھ سے ملنا۔ دھونا۔ شَاصَ فَاهُ
بِالسُّوَاكِ: منہ کو سواک سے صاف کرنا
..... شَوْصًا وَشَوْصًا) بھڑکنا..... الرَّجُلُ:
ڈاڑھ یا پیٹ کے درد والا ہونا..... الخَيْنِيْنُ:
جنم ناماں کے پیٹ میں حرکت کرنا..... بہ
العَرْفُ: رگ کا حرکت کرنا..... فَلَانٌ يَفْلَانُ:
کسی کا کسی پر شرکوبہ اچھتہ کرنا۔
شَوْصَتْ (س) شَوْصًا عَيْنُهُ: اتنی موٹی
ہوئی جس سے دونوں پلکیں نزل سکیں۔ بہت
پھڑکنے والی پلکوں والی ہونا۔ جس کو یہ
کیفیت لاحق ہو اس کو (أَشَوْصُ) کہتے ہیں
اور آکھ کی صفت (شَوْصَاءُ) رَجُ شَوْصٍ.
شَوْصٌ تَشَوْصًا وَشَاصٌ إِشَاصَةً
الرَّجُلُ: سواک کرنا۔
الشُّوْصَةُ: رگ کی حرکت۔ پسیوں کے پردہ
کا درم۔ بیٹ کاریاجی درد۔
الشُّوْصُ: بدخلق۔
شَاطٌ يَشُوْطُ شُوْطًا. بِالْفَعْصَبِ: بھڑکنا۔
شُوْطٌ: لباس کرنا..... الْقِدْرُ: ہانڈی کا
جوش دینا..... اللَّحْمُ: گوشت پکانا.....
الصَّقِيْعُ النَّبَاتِ: پالے کا نباتات کو جلا
دینا۔
تَشُوْطٌ. الْقَرْسُ: گھوڑے کو چلا کر تھکانا۔
الشُّوْطُ: غایت۔ چکر۔ غایت تک ایک
مرتبہ دوڑ۔ کہا جاتا ہے "جَرَى الْقَرْسُ
شُوْطًا" گھوڑے نے ایک چکر لگایا۔ رَجُ
أَشُوْطٍ.
شَاطٌ يَشُوْطُ شُوْطًا. يَفْلَانُ: گالی دینا
..... بِهِ الْفَعْصَبِ: غصہ بھڑکنا۔
تَشَاوَطَ. الْقَوْمُ: باہم گالی گلوچ کرنا۔
الشُّوَاطُ وَالشُّوَاطُ: بغیر دھوئیں کا شعلہ۔

آگ یا دھوپ کی گرمی۔ پیاس کی شدت۔
جین و پکار۔ گالی گلوچ۔

شُوعُ يَشُوعُ شَوْعًا. الرَّاسُ: پراگندہ اور
گرد آلود بالوں والا ہونا..... الْقَرَسُ: ایک
رخسارے میں سفیدی والا ہونا۔ صفت
(أَشُوْع) مَوْنَتُ شَوْعَاء. رَجَ شَوْع.
شَوْعُ تَشْوِيْعًا. الْقَوْمُ: جمع کرنا۔
الشَّوْعُ: بان کا درخت۔ واحد شَوْعَةٌ رَجَ
شِيَاع.

الْمِشْوَاعُ: تھور کی آگ ہلانے کی سیخ۔
(اس کی اصل مَشِيَاع ہے۔)
شَافَةٌ يَشُوفُهُ شَوْفًا: مِمْتَلٌ کرنا۔

الْجَمَلُ بِالْقَطْرَانِ: اُونٹ پر قطران ملنا۔
شَيْفَتُ. الْجَارِيَةُ: بناؤ سنگھار کیا جانا۔
شَوْفُ. الْجَارِيَةُ: لڑکی کا بناؤ سنگھار کرنا۔
مَزِينٌ کرنا۔ آراستہ کرنا۔

أَشَافُ إِشَافَةً عَلَيْهِ: اوپر سے جھانکنا.....
مِنَهُ: خوف کھانا..... الشَّيْءُ: بلند ہونا۔

تَشَوَّفُ تَشَوُّفًا: مَزِينٌ ہونا..... مِنْ
الْبَطْحِ: دیکھنا۔ اوپر سے جھانکنا..... أَلَى
الشَّيْءِ: جھانکنا..... الشَّيْءِ: بلند ہونا۔

إِشْعَافُ إِشْيَافًا. إِلَيْهِ: گردن اٹھانے کے دیکھنا
..... الْبَرْقُ: بجلی کو باؤ امید بارش دیکھنا۔
(..... وَإِسْتَشَافُ) الْجُرْحُ: زخم سخت ہونا۔
الشَّوْفُ: بمس۔ بیک۔

الشَّيْفُ: آنکھ میں استعمال کرنے کی دوا کی
بتی۔

الشَّيْفَةُ وَالشَّيْفَانُ: دید بان۔ دشمن کی
حرکت کی دیکھ بھال کرنے والا۔
الشَّوْفُ: مِنَ الرَّجَالِ: تیز نظر والا۔

الْمَشْوُوفُ: مِمْتَلٌ۔ آراستہ کیا ہوا۔ مِنْ
الْجَمَالِ: قطران ملا ہوا اُونٹ۔

شَافِيٌّ يَشُوفِي شَوْفًا وَتَشَوُّفًا. الْحُبُّ
إِلَيْهِ: شوق دلانا۔ صفت مفعولی (مَشْوُوق) و
صفت فاعلی (شَافِقُ) شَاقِ الْقَرِيْبَةِ: ممتک کو
دیوار سے ممتک لگا کر کھڑا کرنا۔ صفت مفعولی
(مَشْوُوقَةٌ)..... الطَّنْبُ إِلَى الْوَتْدِ: خیمہ کی

رسو یوں کو کھونٹے میں باندھنا۔
أَشَافُهُ أَشَافَةً: شَاقٌ پانا۔

شَوْقُهُ. إِلَيْهِ: شوق کرنے پر برا بھینٹہ کرنا۔
تَشْوُقُ. الشَّيْءِ وَإِلَيْهِ: بہت شوق ظاہر کرنا۔
إِشْتَاقُهُ. وَاشْتَاقَ إِلَيْهِ: بہت خواہش کرنا۔
الشَّوْقُ: بمس۔ سخت خواہش۔ رَجَ أَشْوَاقُ.
الشَّيْقَاقُ وَالشَّيْقُ: وہ چیز جس سے کسی چیز کو
کھینچ کر دوسری چیز میں باندھیں جیسے خیمے کی
طنائیں۔

الشَّيْقِيُّ: آرزو مند۔
الرَّجُلُ (الْأَشْوَقُ) لِمَا رَدَّ رَجَ شَوْقُ.
الشَّوْقُ: غَشَاقُ.

شَاكَةٌ يَشْوُكُهُ شَوْكًا: کانا چھانا۔ شَاكَةٌ
الشَّوْكَةُ: کانا چھانا۔

شَاكٌ يَشَاكُ شَاكَةً وَشِيكَةً: کائنوں
میں پڑنا..... هَ بِالشَّوْكَةِ: کانا چھانا.....
الشَّوْكُ: کائنوں میں پڑنا (..... شَوْكًا)
شوکت ظاہر ہونا..... لِحْيَا الْبَصِيرِ: لمبے
دانتوں والا ہونا..... نَدَى الْجَارِيَةِ: نمودار
ہونا شروع ہونا۔

شِيكٌ: کانا چھانا..... الْجَسَدُ: بدن پر
سرخ پھسپھیاں ظاہر ہونا۔ صفت (مَشْوُوكُ)
أَشَاكَةٌ: کانا چھانا۔

أَشْوُوكُ. الْمَكَانُ: کائنوں والی ہونا۔
أَشْوُوكَتِ الشَّجَرَةِ: خاردار یا بہت کائنوں
والا ہونا۔ صفت (مَشْوُوكَةٌ)

شَوْكُ. الشَّجَرُ: درخت کا خاردار ہونا۔
کانٹے لگانا..... الْحَايِطُ: دیوار پر کانٹے
رکھنا..... السَّقْرُخُ: چوڑے کانٹے پر نکالنا
..... شَارِبُ الْغَلَامِ: لڑکے کی مونچھ کا سخت
ہونا..... الرَّاسُ بَعْدَ الْعَلْقِيِّ: سر میں نئے
بال لگانا۔

الشَّوْكُ: بمس۔ کانا۔ رَجَ أَشْوَاكُ:
واحد (شَوْكَةٌ)

الشَّوْكَةُ: شوک کا واحد۔ بچھو گاڈک۔ سرخ
پھنسی۔ ٹھہار اور اس کی تیزی۔ قوت و
طاقت۔ دشمن کو تکلیف رسائی کہا جاتا ہے

"لَا تَشْوُوكُ مَنِيَّ. شَوْكَةٌ" یعنی مجھ سے
تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ شَوْكَةٌ

الْحَايِطُ: تانا بانا درست کرنے کا آلہ۔
الشَّوْكَةُ الْمُبَارَكَةُ وَالشَّوْكَةُ الْيَهُودِيَّةُ وَ
الشَّوْكَةُ الْبَيْضَاءُ: جزی بوٹیوں کے نام
ہیں۔ رِيْحُ الشَّوْكَةِ: ایک تکلیف دہ پھنسی جو
عموماً ہاتھ کے انگوٹھے میں ہوتی ہے۔
شَوْكُ الْبَرَّاجِ: کانٹے دار پودا جو کہ
جانوروں کے لئے گھاس اور دھوبیوں کے
لئے عمدہ کے کام آتا ہے۔

الشَّائِكُ رَجَ شَاكَةً وَ (الشَّوْكُ)
خاردار۔ شَائِكُ السَّلَاحِ وَشَوْكُ
السَّلَاحِ: ہتھیاروں سے رَجَ اور (شَاكُ
السَّلَاحِ) بال تشدید اور (شَاكُ السَّلَاحِ)
بال تخفیف اور (شَاكِي السَّلَاحِ) بھی مستعمل
ہیں۔ أَرْضٌ أَوْ شَجَرَةٌ (شَاكَةٌ) بہت
کائنوں والی زمین یا درخت۔

الْأَشْوُوكُ. مِنَ الشَّيْبِ وَنَحْوِهَا:
کھر درا۔ مَوْنَتُ شَوْكَاء.

الشَّوْكِرَانُ: ایک زہریلا پودا۔ (دخیل)
شَالٌ يَشْوُلُ شَوْلًا وَشَوْلَاتًا. الدُّنْبُ
وغيره: اٹھنا۔ بلند ہونا۔ شَالُ الشَّيْءِ
وَإِلَى الشَّيْءِ: اُٹھانا۔ بلند کرنا۔

الشَّوْزَانُ: ترازو کے ایک پلڑے کا اونچا
ہونا۔ شَالَتِ الْقَرِيْبَةَ أَوْ الرَّقِيْبَةَ: چھوکنے یا
بھرنے کی وجہ سے ممتک کی ٹانگوں کا کھڑا
ہونا۔ کہا جاتا ہے "شَالَتْ نَعَامَتَهُ" وہ ہلکا ہوا
وہ غضبناک ہوا پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ مر گیا
وَشَالَتْ نَعَامَتَهُمْ: انہوں نے اپنے مکانات
خالی کر دیئے اور متفرق ہو گئے یا ان کا اتفاق
ٹوٹ گیا اور ان کی عزت جاتی رہی۔

أَشَالَ. الشَّيْءُ: بلند کرنا اٹھانا۔

شَوْلٌ تَشْوِيْلًا. لَبَنُ النَّاقَةِ: اُونٹنی کے دودھ
کا کم ہونا۔ ٹھنڈا۔ شَوْلَتِ الشَّوْفُ: دودھ
خشک ہونا۔ شَوْلُ الْمَاءِ: کم ہونا
..... الْمَزَاوِنَةُ: کم پانی والا ہونا..... فِى
الْمَزَاوِنَةِ: تھوڑا پانی باقی رکھنا۔

شَاوَلٌ. الْحَجَرُ: اٹھانا..... وہ بہہ بہنا:
(..... وَتَشَاوَلٌ) ایک دوسرے پر تیزہ سے
حمل کرنا۔

إِنْشَالٌ أَنْشِيَالًا: بلند ہونا۔
إِنْشَالٌ إِنْشِيَالًا: بلند ہونا..... لُءُ: تعرض
کرنا۔ گالی دینا۔
إِسْتَشَالَتِ. النَّاقَةُ ذَنْبِهَا: اُونٹنی کا دم کو
اٹھانا۔

الشُّوْلُ: مِصْرٌ۔ سَبْكٌ بِلْكَ ذُوْلٍ وَغَيْرِهِ كَالْبَقِيَّةِ
پانی۔ تھوڑا پانی۔ نَجْ أَسْوَالٌ.
الشُّوْلُ: کام اور خدمت میں چست۔

الشُّوْلَةُ: اسم مرءة۔ بچھو کے ڈمک کا وہ حصہ جو
اوپر کو اٹھا ہوا ہوتا ہے..... مِنْ النِّسَاءِ: بے
وقوف عورت۔

شُوْلَةٌ وَشُوْلَةٌ: بچھو کا اسم علم..... الشُّوَالَةُ:
چغل خور عورت۔

الشُّوَالُ. عِنْدَ الْعَامَةِ: بانوں یا اون کا بڑا
بورا (یہ جو الق کی تحریف ہے)

الشَّالُ: کندھوں پر ڈالنے کی چادر۔ نَجْ
شَيْلَانٌ وَشَالَاتٌ: اور (الشَّالَةُ) انحص ہے
(اعجمیہ) النَّاقَةُ (الشَّائِلُ) بغیر دودھ والی
مستی کے وقت دُم اٹھانے والی اُونٹنی۔ نَجْ
شُوْلٌ وَشُوْلٌ وَشَيْلٌ وَشَيْلٌ.
الشَّائِلَةُ. الشَّائِلُ: کامونٹ..... مِنْ الْإِبِلِ:
اُونٹنی جس کے حمل کو یا بعد وضع حمل کے ساتھ
میبینے ہو چکے ہوں اور دودھ خشک ہو گیا ہو۔ نَجْ
شُوْلٌ. أَشْوَالٌ وَشَوَائِلٌ.

شُوَالٌ: قمری سال کا دسواں مہینہ اور کبھی
الف لام داخل کر کے الشُّوَالُ: بھی کہا جاتا
ہے۔ نَجْ شُوَالَاتٌ: دوج شُوَاوِیلِ.
المِشْوَالُ: چھوٹی دانتی۔

المِشْوَالُ: چچر جو طاقت کی آزمائش کے
لئے اٹھایا جائے۔
شَانٌ يَشُوْنُ شُوْنَا. الرُّوْزُوسُ: دماغ کے
کیزے نکالنے کے لئے سر کو کھولنا۔
تَشُوْنٌ: کم عقل ہونا۔
الشُّوْنَةُ: بے وقوف عورت۔

الشُّوْنَةُ: غلج جمع کرنے کی جگہ۔ جنگلی جہاز۔
نَجْ شُوَانٌ.

الشُّوَانُ: غلج جمع کرنے والا۔
شَاةٌ يَشُوْنَةُ شُوْنَهَا وَشُوْنَةً. الوَجْهُ: چہرہ
بد شکل ہونا..... الرَّجُلُ: خوفزدہ کرنا۔ گھبرا
دینا۔ حسد کرنا۔ نظر بد لگانا۔ کہا جاتا ہے
"شَاهَتْ نَفْسُهُ إِلَى كَذَا" اس نے فلاں چیز
پر آنکھ لگائی۔

شُوْةٌ يَشُوْةٌ شُوْهَا. الوَجْهُ: چہرہ کا بد شکل
ہونا..... الغُنُقُ: گردن لمبی ہونا۔ چھوٹی
ہونا۔ (خُذ)

شُوْةٌ. اللَّهْ وَجْهَهُ: چہرہ کا بد شکل بنانا۔ کہا
جاتا ہے "لَا تَشُوْهُ عَلَيَّ" مجھے نظر بد نہ لگاؤ۔
تَشُوْةٌ: بد شکل ہونا۔ تَشُوْةُ الرَّجُلُ شَاةٌ:
شکار کرنا..... لِفْلَانٌ: اپنے آپ کو کسی کے
لئے ناشائساں کرنا۔ نظر بد لگانے کے لئے
کسی کی طرف نگاہ اٹھانا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ
يَتَشُوْةُ أَمْوَالَ النَّاسِ لِصِيْبَتِهَا بِالْعَيْنِ" وہ
نظر بد لگانے کے لئے لوگوں کے اموال کی
طرف نگاہ اٹھاتا ہے۔

الشُّوْةُ: مِصْرٌ۔ بد شکلی۔ خوبصورتی (خُذ)
گردن کی لمبائی و بلندی۔ سر بلند کرنا۔
الشُّوْةُ: دوری۔ بد شکلی۔
الشَّاهُ: بادشاہ نسبت کے لئے (شاهی و
شاہانی)

الشَّاهُ: فا۔ حسد کرنے والا۔ نَجْ شُوْةٌ.
شَاهٌ يَنْدُو: سوداگروں کا رئیس۔
شَاهٌ بَلُوْتُوطٌ: شاہ بلوط کا درخت۔
رَجُلٌ (شَاةٌ الْبَصْرِ وَشَاهِيَةٌ وَشَاهِيَةٌ) تیز
نظر والا۔

الشَّاةُ: بکری۔ بکرا۔ جنگلی گائے۔ نَجْ شَاءٌ
وَشِيَاهٌ وَشِيَاهٌ وَأَشَاوَهُ وَشِيَاهُ وَشِيَاهُ
وَشِيَاهُ: اور شاة کی تغیر شُوْنُهُ وَشُوْنِيَةٌ نَجْ
شُوْنِيَّاتٌ اور نسبت کے لئے شَاوِيٌّ جیسے
سَمَاءٌ سَمَاوِيٌّ.

الشَّاهِيُّ: بکری والا۔
الشَّاهِيْتُجُّ: ایک گھاس نما پودا جس کے پتے

ڈبل ہوتے ہیں۔ انگری شکل کے پھول
ہوتے ہیں۔ اس کے پھول اور بیج خارش
کے لئے بطور دواء استعمال ہوتے ہیں۔

الاشُّوْةُ: بد شکل۔ جلدی نظر بد لگانے والا۔
مستکبر۔ مَوْنُثٌ شُوْهَاءٌ. نَجْ شُوْةٌ. الشُّوْهَاءُ:
ترش رو عورت۔ بد شکل عورت۔ خوبصورت
(خُذ) منحوس عورت۔ فَرَسٌ شُوْهَاءٌ: تیز
نگاہ والا گھوڑا۔ أَرْضٌ (مَشَاهَةٌ) بہت
بکریوں والی زمین۔

المِشُّوْةُ: بد شکل۔ ناموار شکل و صورت
والا۔

شُوْيٌ يَشُوِيٌّ شِيًّا. اللَّحْمُ: گوشت کو آگ
میں بھوننا۔ صفت مفعولی (مَشُوِيٌّ)
المَاءُ: پانی گرم کرنا۔

شُوْيٌ أَسْوَى. القَوْمُ: بھنا ہوا گوشت کھلانا
..... الرَّجُلُ: جسم کے ایسے حصہ پر زخم لگانا
جس سے قتل واقع نہ ہو۔ أَشْوَى السَّهْمُ:
تیر کا نشانہ سے چوک جانا۔ أَشْوَى الزُّرْعُ:
بھوننے کے قابل ہونا..... الرَّجُلُ: رات
کے کھانے سے کچھ چھوڑ دینا۔ گھنیا مال جمع
کرنا۔ أَشْوَى السَّعْفُ: درخت خرما کی
شاخ کا خشک ہو کر زرد پڑنا اور اسی سے ہے
"مَسَا أَعْيَاهُ وَمَا أَشْوَاهُ" وہ کس قدر کمزور
ہے۔

إِنْشُوِيٌّ إِنْشِوَاءٌ وَأَشْوَى إِنْشِوَاءٌ: بھن
جانا۔ اِنْشُوِيٌّ الرَّجُلُ: بھوننا۔

الشُّوِيٌّ: گھنیا مال۔ آسان معاملہ۔ ہاتھ
پیر۔ جسم کے اطراف۔ وہ اعضاء جن پر زخم
لگنے سے قتل واقع نہ ہو (..... الشُّوَاةُ)
کھوپڑی کا چھڑا۔

الشُّوَاءُ وَالشُّوَاءُ: بھنا ہوا گوشت وغیرہ
وَالشُّوَاءَةُ وَالشُّوَاءَةُ وَالشُّوَاءَةُ: بھنے
ہوئے گوشت وغیرہ کا ایک کٹڑا۔

الشُّوَاءُ: گوشت بھوننے والا۔

الشُّوَايَةُ وَالشُّوَايَةُ وَالشُّوَايَةُ وَالشُّوَايَةُ مِنْ
أَلْسَالٍ: رودی مال۔ ہلاک شدہ قوم یا مال کا
بقیہ۔ نَجْ شُوَايَا سَغْفَةٌ (شَاوِيَّةٌ) درخت خرما

کی خشک شاخ۔

الشوی: بھنا ہوا گوشت۔

المشواة: گوشت بھوننے کا آلہ۔

مشاور۔

شَاءَ وَ يَشَاءُ وَ شَيْئًا وَ مَشِيئَةً وَ مَشَاءَةً

وَ مَشَائِيَةً: چاہنا۔ صفت فاعلی (شَاءَ) اور

صفت مفعولی (مَشِيئَةً)..... اللہ الشی: مقدر

کرنا۔ تعجب کے موقع پر "مَا شَاءَ اللَّهُ" کہا

جاتا ہے۔

شَيْئًا: عَلَى الْأَمْرِ: برا بیختہ کرنا۔ شَيْئًا اللَّهُ

وَ جِهَهُ: چہرہ کا بد شکل بنانا۔

أَشَاءُ إِلَيْهِ إِشَاءَةً: مجبور کرنا۔

تَشْيًا تَشْيِيًا: غصہ بھننا ہونا۔

الشيء: مصل۔ چیز جس کے ساتھ علم و خبر کا

تعلق ہو سکے۔ ج اشیاء حج اشیاء و

أَشْيَاءُ وَأَشْيَاءُ وَأَشْيَاءُ وَأَشْيَاءُ: اور اشیا اور اشیا

و شیی اور اشیاء: کا کلمہ غیر منصرف ہے۔

الشيئة: شَاءَ: کا اسم (..... وَ الْمَشِيئَةَ)

ارادہ۔

المُشِيًّا: بد شکل۔ ناموار صورت والا۔

شَابٌ يَشِبُّ شَيْبًا وَ شَيْبَةً وَ مَشِيئًا: سفید

بالوں والا ہونا۔ بوڑھا ہونا۔ صفت مذکر

(أَشَيْبٌ وَ شَائِبٌ) صفت مؤنث (شَائِبَةٌ)

(مؤنث کی صفت میں شَيْبَاءٌ نہیں بلکہ

شَمَطَاءٌ آتا ہے) کہا جاتا ہے (شَابٌ

رُؤُوسُ الْأَكَامِ" نیلوں کی چوٹیاں برف سے

سفید ہوئیں۔

أَشَابَ الرَّجُلُ بُوْرُغِي أَوْلَادِهِ: بونا۔

أَشَابَ وَ شَيْبَ: الخَزْنُ فَلَاتًا وَ بَغْلَانٍ: غم

کا بوڑھا کر دینا۔

الاشيب: سفید سرد والا..... مِنْ الْأَيَّامِ: برف

و بادل والا دن۔ ج شَيْبٌ وَ شَيْبٌ

الشيْب: برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ۔

الشائب: قا۔ سفید سرد والا۔ مؤنث شَائِبَةٌ

:۔ ج شَيْبٌ: مبالغہ کے طور پر "شَيْبٌ

شَابٌ" کہا جاتا ہے مانند لَيْلٍ لِأَبْلِ كَ۔

يَوْمٌ (شَيْبَان) اولہ برف بادل کا دن

(..... وَ شَيْبَان) ماہ دیکبر (چونکہ اس ماہ میں

برف اولہ کی وجہ سے زمین سفید رہتی ہے)۔

الشَيْبَةُ: اسم مرءة۔ شباب کا اسم۔ ایک پودہ

ہے جس کا نام (الفسنتين) ہے۔

الشَيْبَان: بڈی وغیرہ کی چھوٹی لکڑی۔

شَاخٌ يَشِيخُ شَيْخًا: عَلَى حَاجَتِهِ: چونکہ

رہنا۔ کوشش کرنا۔

شَيْخَةٌ: ذُرَاتُهَا۔ شَبَّحَ خَضْمُهُ: تنگ

لگا ہوں سے دیکھنا۔

أَشَاحَ إِشَاحَةً: فِي أَمْرِهِ: کوشش کرنا چونکہ

رہنا۔ محتاط رہنا..... وَ جِهَهُ وَ بُوْجِهَهُ وَ أَشَاحَ

عَنَهُ وَ جِهَهُ: نفرت سے مت پھیر لینا

..... الْمَمْكَانُ: شَيْخٌ نَامِي كَمَا سَأَلْنَا

..... الْفَرَسُ بِذَنْبِهِ: گھوڑے کا دم کو ڈھیلا

چھوڑ دینا۔

شَاحٌ مُشَاحِيَةٌ وَ شَيْخَا: جنگ کرنا۔ فی

الأمور: کوشش کرنا۔

الشَيْخُ: ایک قسم کی گھاس۔ واحد

(شَيْخَةٌ)..... مِنْ الرَّجَالِ: کاموں میں

کوشش کرنے والا۔ چونکہ اپنے والا۔

الشِيَاخُ: مصل۔ کوش۔ احتیاط۔ خط۔

الشَيْخَانُ وَ الشَيْخَانُ وَ الْمُشِيخُ: لمبا۔

شَاخٌ يَشِيخُ شَيْخًا وَ شَيْوُخَةً وَ شَيْوُخَةً

وَ شَيْوُخِيَةً وَ شَيْوُخِيَةً وَ شَيْوُخِيَةً

وَ شَيْوُخِيَةً: بوڑھا ہونا۔

شَيْخٌ بُوْرُغِي هُوَا..... ه: تقظیم کے لئے يَاشِخْ

کہہ کے پکارنا..... عَلَيْهِ: عیب لگانا۔ طعن و

تَشِيخٌ کرنا..... بِهِ: رسوا کرنا۔

الشَيْخِيَّةُ: بھول کی ایک قسم جس کو کہ بطور زيب

و زينت بُوْرُغِي جاتے ہیں۔

تَشِيخٌ: بوڑھا ہونا۔

الشَيْخُ: بڈھا۔ ج شَيْوُخٌ وَ شَيْوُخٌ

وَ الشِيَاخُ وَ شَيْخَةٌ وَ شَيْخَةٌ وَ شَيْخَانُ.

وَمَشِيخَةٌ وَ مَشِيخَةٌ وَ جَ مَشَائِخُ

وَ أَشَائِخُ: مؤنث شَيْخَةٌ اور شَيْخٌ کی تصغیر

شَيْخٌ وَ شَيْخٌ. شَيْخُ الْمَرْأَةِ: شوہر اور شَيْخُ

کا اطلاق استاد۔ عالم۔ سردار قوم اور ہر اس

شخص پر ہے جو لوگوں کے نزدیک علم و

فضیلت و مرتبہ کے لحاظ سے بڑا ہوتا ہے۔

شَيْخُ النَّارِ: ایسے سے کہنا یہ ہے۔

الشَيْخُونُ: بڈھا۔

شَادٌ يَشِيدُ شَيْدًا وَ شَيْدُ الْبِنَاءِ: عمارت کو

بلند کرنا..... الْحَائِطُ: دیوار پر گچ کرنا۔

جِلْدَةٌ بِالطَّيْبِ: جسم پر خوشبو ملانا۔ شَادُ

الرَّجُلِ: ہلاک ہونا (شَادُ الْإِبِلِ شَيْدًا)

أَوْ نُونٌ كُوْبَانًا۔

أَشَادَةٌ إِشَادَةٌ: ہلاک کرنا۔ أَشَادٌ بِذَنْبِهِ:

تعریف کر کے مشہور کرنا۔ أَشَادٌ عَلَيْهِ قِيْحًا

و بَقِيْحٌ: بدنام کر کے مشہور کرنا۔ أَشَادٌ عَلَيْهِ

: کسی کے متعلق بڑائی مشہور کرنا..... الْمُغْنَى:

گانے میں آواز بلند کرنا۔ أَشَادٌ صَوْتَهُ

و بصَوْتِهِ: بڑے طریقے سے آواز بلند کرنا۔

أَشَادَ الضَّالَّةَ: گم شدہ چیز کی تعریف کرنا.....

الْبَيْنَانُ: لمبا کرنا۔

الشَيْدُ: گچ وغیرہ کا پلستر۔

السَّمِيْدُ: مٹع۔ پلستر کیا ہوا (.....)

وَالْمَشِيْدُ: بلند کیا ہوا۔

الشِّيَارُ: یومِ شنبہ۔ ج أَشِيرٌ وَ شِيرٌ وَ شِيرٌ.

شَيْزَةٌ: البُوْرُغِي: سرخی سے دھاری بنانا۔

الشَيْزُ وَ الشَيْزِي: آبنوس کی لکڑی یا بہت

سیاہ رنگ کی مضبوط لکڑی۔

الشَيْشَةُ: تمباکو نوشی کا آلہ۔

أَشَاسَتِ، النَخْلَةُ: نرم چھلکی کی کھجور والا

ہونا۔

الشَيْشُ: نرم چھلکی کی کھجور۔ وَالشَيْشُ

عِنْدَ الْعَامَةِ: گوشت بھوننے کی لوہے کی سِخ۔

فَصِحْ لِقَطَا سَفُوْدٍ ہے۔

شَيْصُ الْقَوْمِ: رنج و تکلیف پہنچانا۔ عذاب

دینا۔ شَيْصَتِ النَخْلَةُ: ردی کھجور والا

ہونا۔

الشَيْصُ: ایک قسم کی ردی کھجور۔ ایک قسم کی

چھلکی۔ واحد (شَيْصَةٌ)

الشَيْصُ: بد ظنی۔

الشَّيْصَاءُ: نرم گھٹلی کی مھجور۔ واحد (شَيْصَاءَةٌ) (۶)

المُشَايِصَةُ: ایک دوسرے سے جدا کی۔ منافرت۔

شَطَا يَشِيْطُ شَيْطًا وَشَيْطَانَةً وَشَيْطُوْطَةً. الشَّيْطَانُ: جلنا۔ شَطَّطَ القَلْبُ: ہانڈی کی تلی میں جلی ہوئی چیز کا لگنا۔ شَطَا الزَّيْثُ:

زیتون کے تیل کا گاڑھا ہونا۔ شَطَّطَ الذَّبِيْحَةُ: ذبیحہ کا گوشت تقسیم کر کے ختم ہو جانا۔

فُلَانٌ يَبْلُوكُ: ہلاک ہونا۔ فِي الأَمْرِ: جلدی کرنا۔ دُمُهُ: بیکار جانا۔ فُلَانٌ يَدْمَأُ:

ملانا۔ یعنی قاتل کو مقتول کے خون پر قتل کرنا۔ شَيْطُ وَأَشَاطُ: الصَّقِيْعُ النَّبْتُ أو الدَّوَاءُ السَّجُورُ:

جلانا۔ السَّرَاسُ أو الكُرَاعُ: سری یا پائے کے بالوں کو جلانے کے لئے

جھلنا۔ القَلْبُ: ہانڈی کو جوش دینا۔ أَشَاطُ فُلَانًا:

ہلاک کرنا۔ أَشَاطُ اللِّحْمَ عَلَى القَوْمِ:

گوشت تقسیم کرنا۔ أَشَاطُ السُّلْطَانَ دَمَهُ وَبَدَنَهُ: قتل کرنے کے لئے سامنے لانا۔ تَشَيَّطَ:

جلنا۔ کثرت جماع کی وجہ سے لاغرو کزور ہونا۔

إِشْطَا إِشْطَاطًا. عَلَيْهِ: غصہ سے بھڑک اٹھنا۔ الحَمَامُ:

کبوتر کا خوش ہو کر اڑنا۔ مِنَ الأَمْرِ: ہلکا ہونا۔ فِي الحَرْبِ:

اپنے آپ کو قتل کے لئے پیش کرنا۔ الشَّيْطَانُ:

روئی اڈون وغیرہ کے جلنے کی بو۔ التَّشْيِيْطُ وَالمُشْيِيْطُ:

گوشت جو قوم کے لئے بھجوا جائے۔ الشَّطِي:

غبار جو فضا میں بلند ہو۔ المُشْتَشِيْطُ:

بہت شے والا۔ مَوْنَا أُوْتُ: شَيْطَانٌ وَشَيْطَانٌ (دیکھو مادہ شطن) شَاعَ يَشِيْعُ شَيْعًا:

بِالْخَبْرِ: خبر کو پھیلانا۔ الإِنَاءُ: برتن کو بھرنا۔ شَاعَ يَشِيْعُ شَيْعًا وَشَيْوَعًا وَشَيْعَانًا وَشَيْعَانًا وَشَيْوَعَةً:

بِالْخَبْرِ: پھیلانا۔ فِيهِ الشَّيْبُ:

بڑھاپا ظاہر ہونا۔ شَاعَهُ شَيْعًا:

بیچے جانا۔ ہمراہ جانا اور اسی

سے ہے "شَاعَكُمْ السَّلَامُ وَشَاعَكُمْ اللّٰهُ بِالسَّلَامِ" یعنی سلامتی تمہارے ساتھ رہے اور اللہ تعالیٰ سلامتی کو تمہارے ساتھ کریں۔

أَشَاعَ إِشَاعَةً. الخَبْرُ وَبِالْخَبْرِ: پھیلانا اور کہا جاتا ہے "أَشَاعَكُمْ اللّٰهُ السَّلَامُ وَبِالسَّلَامِ" اللہ تعالیٰ سلامتی کو تمہارے ساتھ کریں۔ أَشَاعَ بِالإِبِلِ:

بیچے رہے ہوئے اونٹ کو بلانا۔ شَيْعَةٌ:

رضعت کرنے یا مکان تک پہنچانے کے لئے ہمراہ جانا۔ شَيْعَ شَهْرٍ رَمَضَانَ:

شش عید کے روزے رکھنا۔ الرَّجُلُ: جرات دلانا۔ قوی کرنا۔ النَّزَارُ:

آگ تیز کرنے کے لئے لکڑیاں ڈالنا۔ الشَّيْبُ:

بالنار: جلانا۔ الرَّجُلُ:

شیعہ ہونے کا دعویٰ کرنا۔ الشَّيْبُ: کسی چیز کو بھیجنا اور اس کے بیچے جانا۔

شَايِعَةٌ: کام کے لئے کسی کے ہمراہ جانا۔ شَايِعٌ بِهِمُ الدَّلِيْلُ:

رہنما کا لوگوں کو پکارتا۔ بِالإِبِلِ: پکارتا آواز دینا۔ تَشَيَّعَ:

شیعہ ہونے کا دعویٰ کرنا۔ اللَّبْنُ فِي المَاءِ:

بکھرنا۔ الغَضْبُ: دل میں غصہ بھڑکنا۔ فُلَانٌ فِي الشَّيْبِ:

کسی چیز کی محبت میں ہلاک ہونا۔ الشَّيْبُ:

بڑھاپا نمایاں ہونا۔ تَشَايَعَ تَشَايَعًا:

القَوْمُ: مختلف گروہ ہونا۔ تَشَايَعُوا عَلَى الأَمْرِ:

باہم موافق ہونا۔ تَشَايَعُوا عَلَى الأَمْرِ:

باہم موافق ہونا۔ تَشَايَعُوا فِي الدَّارِ:

شریک ہونا۔ تَشَايَعَتِ الإِبِلُ:

متفرق ہونا۔ إِشْتَاعًا إِشْتِيَاعًا:

فِي الدَّارِ: شریک ہونا۔ الشُّيُوْعِيَّةُ:

کارل مارکس کا اجتماعی نظریہ۔ (مارکزم)

الشَّيْبُ: ہمیں۔ مقدار۔ شل۔ جِ أَشْيَاعَ:

کہا جاتا ہے "هَذَا شَيْعٌ ذَاكُ" یا اس کے مثل ہے اور اسی سے ہے "كَمَا فَعَلَ بِأَشْيَاعِهِمْ" یعنی جیسا ان کے امثال کے ساتھ کیا گیا۔ وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ شَهْرًا:

اَوْ شَيْعَ شَهْرًا:

شَهْرًا: میں نے اس کے پاس ایک مہینہ یا ایک مہینہ کے بقدر اقامت کی۔ "كَأَنَّ مَعَهُ مِائَةَ رَجُلٍ أَوْ شَيْعٌ ذَلِكُ" اس کے ساتھ سو آدمی یا اسی کے بقدر تھے۔ "نَزَلُوا فَوَضَعُوا كَهَذَا أَوْ شَيْعَهُ" وہ لوگ فلاں مقام میں یا اس کے قریب اترے۔ "أَتَيْكَ غَدًا وَشَيْعُهُ" میں تمہارے پاس کل یا اس کے بعد آؤں گا۔

الشَّاعَةُ: بیوی۔ پھیلی ہوئی خبریں اور یہ شائع کی جمع ہے۔

شَيْعَةُ الرَّجُلِ: بیرو مدگار۔ جِ شَيْعٍ وَأَشْيَاعٍ وَالشَّيْعَةُ:

فِرْقَةٌ (واحد شیعہ جمع مذکر مؤنث سب کے لئے مستعمل ہے) اس لفظ کا

غلبہ استعمال ان لوگوں کے لئے ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے طرف دار ہیں۔

واحد (شيعي)

الشَّيْعُ: حصہ دار۔ شریک۔ کہا جاتا ہے "هَذَا شَيْعٌ لِهَذَا" یا اس کا حصہ دار ہے۔ جِ

شَيْعَاءَ مَوْتِ شَيْعَةَ:

کہا جاتا ہے "الذَّارِ شَيْعَةً بَيْنَهُمَا" گھرانے دونوں کے درمیان

مشترک ہے۔ الشَّيْعَانُ:

آگ سلگانے کی چیز۔ چرواہے کی بانسری یا اس کی آواز۔

الشَّيْوُوعُ: آگ سلگانے کی چیز۔ الشَّائِعُ:

فَاخْبِدِيكَ شَائِعٌ وَشَاعَ بِحَذْفِ عَيْنٍ:

پھیلی ہوئی بات۔ سَهْمٌ شَائِعٌ وَشَاعَ:

مشترک غیر منقسم حصہ۔ المَشَاعُ وَالمُشَاعُ:

پھیلنا ہوا۔ مشترک غیر منقسم اور اسی سے ہے "مَشَاعُ القُرْبَى" وہ چیزیں جس میں آبادی کے سب لوگ شامل ہوں۔

المُشِيْعُ:

بھرا ہوا برتن۔ کینگی سے بھرا ہوا کینہ ور۔

المُشِيْعَةُ:

نوکری جس میں عورتیں روٹی رکھتی ہیں۔

المُشِيْعُ:

بمغ۔ بہادر۔ جلد باز۔

المُشِيْعَانُ:

تخور کی آگ بلانے کی سب۔

<p>الشَّيْمَةُ وَالشَّيْمَةُ: عادت۔ طبیعت۔ ج شیم۔</p>	<p>شَيْمًا وَشَيْوَمًا الرَّجُلُ: جم کے حملہ کرنا فِی الشَّيْءِ: داخل ہونا۔ الشَّيْءُ فِی الشَّيْءِ: چھپاتا..... الشَّيْءُ: تخمینہ و اندازہ کرنا۔</p>	<p>رَجُلٌ شَيْمِيٌّ: راز کو پھیلانے والا مرد۔ الْمُتَشَائِعُ وَالْمُتَشَاعُ: شریک۔ شَاقَهُ يَشِيْقُهُ شَيْقًا. إِلَيْهِ: پہنچ کر باندھنا۔ کہا جاتا ہے "شَاقَ الطَّنْبَ إِلَى الْوَقْدِ" اس نے طنابوں کو کھینچ کھینچ کر رخ سے باندھا۔</p>
<p>الشَّيْمُ: ہر وہ زمین جو اب تک کھدی نہ ہو اور اپنی تختی پر باقی ہو۔ الشَّيْمُ: نرم زمین۔ مٹی۔ الشَّيْمُ: مٹی۔ چوہا۔ ج شیم۔</p>	<p>کہا جاتا ہے "شَيْمٌ مَا بَيْنَهُمَا" ان دونوں کے درمیان اندازہ کرو۔ شَيْمٌ وَأَسَامٌ وَأَنْشَامٌ وَأَشْتَامٌ. فِی الشَّيْءِ أَوْ الْأَمْرِ: داخل ہونا۔ شَيْمٌ يَدِيْهِ فِی رَأْسِ فُلَانٍ أَوْ شَوْبِهِ: لڑائی کرنے کے لئے سر یا کپڑے کو پکڑنا۔ إِنْشَامَ الرَّجُلِ: منظور نظر ہونا۔</p>	<p>الشَّيْقُ: پہاڑ کی چوٹی اور بقول بعض پہاڑ کی دشوار جگہ۔ جانب پہاڑ کی تنگ درز۔ جانور کی دم کے بال۔ الشَّيْقُ: ایک سمندری مچھلی۔ واحد (شَيْقَةٌ)</p>
<p>المَشِيْمَةُ: بچہ کی جھلی جس میں بچہ پیدائش کے وقت لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ ج مَشِيْمٌ وَمَشَائِمٌ. شَانَهُ يَشِيْنُهُ شَيْنًا: عیب لگانا۔ شَيْنٌ: حرف "ش" لکھنا۔ المَشَائِنُ: عیوب۔ شَاهَهُ يَشِيْهُهُ شَيْهًا: نظر بد لگانا۔ الشَّيْوَةُ: نظر بد لگانے والا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ شَيْوَةٌ مِنْ أَشْيِهِ النَّاسِ" وہ بہت نظر بد لگانے والا ہے۔ الشَّيْمَةُ (دیکھووش ی) الشَّيْءُ: چائے۔</p>	<p>شَيْمٌ وَأَسَامٌ وَأَنْشَامٌ وَأَشْتَامٌ. فِی الشَّيْءِ أَوْ الْأَمْرِ: داخل ہونا۔ شَيْمٌ يَدِيْهِ فِی رَأْسِ فُلَانٍ أَوْ شَوْبِهِ: لڑائی کرنے کے لئے سر یا کپڑے کو پکڑنا۔ إِنْشَامَ الرَّجُلِ: منظور نظر ہونا۔ تَشَيْمٌ. أَبَاهُ: خصلت میں باپ کے مشابہ ہونا الشَّيْءُ فِی الشَّيْءِ: داخل ہونا..... الشَّيْبُ فُلَانًا: بڑھا پا غالب ہونا۔ الشَّامَةُ: تل۔ زمین میں سیاہ نشان۔ چاند کا دارغ۔ کالی اونٹنی۔ ج شَامٌ وَشَامَاتٌ کہا جاتا ہے "سَارُوا شَامًا فِی الْبِلَادِ" وہ لوگ شہروں میں متفرق ہو گئے۔ جس طرح تل بدن پر متفرق ہوتے ہیں۔</p>	<p>الشَّيْقُ: بوجھ اٹھانے والا۔ و(الشَّيْقَالَةُ) بوجھ اٹھانے کا پیشہ۔ شَامٌ يَشِيْمُ شَيْمًا: بدن میں تل والا ہونا۔ صفت (أَشِيْمٌ) مَوْنِتٌ شَيْمَاءُ ج شَيْمٌ وَشَوْمٌ. السَّيْفُ: تلوار کو میان میں کرنا۔ میان سے سوختا۔ (ضد)..... البَرُوقُ: بجلی کے چمکنے اور برسنے کی سمت کو دیکھنا۔ کہا جاتا ہے "شَامٌ مَحَابِلِ الشَّيْءِ" یعنی اس نے فلاں چیز کی طرف انتظار کرتے ہوئے نگاہ اٹھائی (.....)</p>

صفت صابئی عَلَيْهِمْ اِذَا نَكَحْتُمُوهُنَّ لَمَّا خَلَعْتُمُوهُنَّ
 الْعَدُوِّ عَلَيْهِمْ: دشمن کی رہنمائی کرنا
 (..... وَأَصْبَأُ أَصْبَاءً) النَّسَابُ او
 النَّسَبَات: دانت نکلنا۔ نباتات اُگنا اور اَصْبَأُ
 الْقَوْمُ: قوم پر اچانک پہنچ جانا۔
 الصَّابِئُونَ وَالصَّابِنَةُ: ایک قوم جو ستاروں
 کی پرستش کرتی تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ
 نوح علیہ السلام کے دین کے پیرو تھے اور کہا
 گیا ہے کہ ان کے علاوہ ہیں۔
 الصَّائِرَاتُ وَالصَّائِرَاتُ: جمع صَائِرٌ: عبرانی
 کا لفظ ہے جس کے معنی خوبصورتی اور شرافت
 کے ہیں اور اسی سے ہے ”رَبُّ الصَّائِرَاتِ“
 یعنی شرافت والا۔

صَبَّحَ: (ف) صَبَّاحًا. الْقَوْمُ: صبح کے
 وقت آنا عَنِ الْحَقِّ: حق ظاہر کرنا۔
 صَبَّحَ: (س) صَبَّحًا وَصَبَّحَةً: چمکدار
 روشن ہونا الشُّعْرُ: بال کا چمکدار ہونا
 الْحَدِيدُ: لوہے کا چمکدار ہونا۔

صَبَّحَ: (ک) صَبَّاحَةً. الْوَجْهَ: چہرے کا
 روشن و چمکدار ہونا الْغَلَامُ: لڑکے کا
 خوبصورت ہونا۔ صفت صَبَّاحٌ صَبَّيْحٌ.
 صَبَّحَهُ: صبح کے وقت آنا۔ صبح کی شراب
 پلانا۔ صَبَّحَ الْقَوْمَ الْمَاءَ: قوم کو لے کر چلنا
 اور صبح کو پانی پر پہنچنا الرَّجُلُ: صبح کو سلام
 کرنا۔ کہا جاتا ہے ”صَبَّحَكَ اللَّهُ
 بِخَيْرٍ“

أَصْبَحَ: صبح میں داخل ہونا۔ آدمی رات میں
 بیدار ہونا الْمَصْبَاحُ: چراغ جلاتا۔
 الْحَقِّ: حق ظاہر ہونا۔
 أَصْبَحَ: نازِجُلٌ: اے شخص چونکا رہو۔

عرب جب کسی سے بدقالی لیا کرتے تھے تو
 کہا کرتے تھے صَبَّحَ اللَّهُ لَأَصْبَاحُكَ.
 تَصَبَّحَ: صبح کے وقت سونا۔ ناشتہ کرنا۔
 تَصَبَّحَ بِهِ: صبح کے وقت ملنا۔

تَصَابِيحُ: تکلف خوبصورت بننا۔ کہا جاتا ہے
 ”فَلَانٌ يَتَصَابَحُ وَيَتَحَاسِنُ“ فلاں تکلف
 خوبصورت و حسین بنتا ہے۔

إِصْطَبَحَ: چراغ روشن کرنا۔ کہا جاتا ہے
 ”الْقَمْعُ مِمَّا يَصْطَبَحُ بِهِ“ موم ان چیزوں
 میں سے ہے جن سے روشنی کی جاتی ہے۔
 الرَّجُلُ: صبح کی شراب پینا۔
 إِصْبَاحٌ إِصْبَاحًا. الشُّعْرُ: بال کا مائل
 بر سر ہونا۔
 إِسْتَصْبَحَ. الرَّجُلُ: چراغ جلاتا۔ روشن
 کرنا۔

الصُّبْحُ: دن کا ابتدائی حصہ۔ صَبَّحَ أَصْبَاحًا.
 الصُّبْحَةُ: صبح۔ ناشتہ۔ سیاہ رنگ۔ مائل
 بر سر (..... وَالصُّبْحَةُ): صبح کی نیند۔

الصَّبَاحُ وَالصَّبِيحَةُ الْأَصْبُوخَةُ: دن کا
 ابتدائی حصہ اور وہ شام کی ضد ہے۔ تم کہتے
 ہو ”أَتَيْتُهُ صَبَّاحًا قَسَاءً“ دونوں جڑوں کو پانی کر
 کے اور ”أَتَيْتُهُ ذَا صَبَّاحٍ“ یعنی صبح کے وقت
 اور ”عِمَّ صَبَّاحًا“ یعنی تمہاری زندگی صبح کے
 وقت اچھی ہو۔ ”يَوْمُ الصَّبَّاحِ“ لوٹ کا
 دن۔

الصَّبَّاحُ: قدیل کا شعلہ۔ غَلَامٌ صَبَّاحٌ:
 خوبصورت لڑکا۔ مَوْنَتْ صَبَّاحَةٌ: صبح
 الصَّبَّاحِيَّةُ: چوڑا نیزہ۔

الصَّبَّاحِيُّ: بہت سرخ خون۔
 الْأَصْبَحُ: شیر۔ بال جس میں خلقتا سفیدی
 سرخی مائل ہو۔ سفیدی سرخی مائل بال والا۔
 مَوْنَتْ صَبَّاحًا: صبح صُبَّحَ.

الصُّبُوخُ: جو چیز صبح کے وقت کھائی یا پی
 جائے۔ دودھ جو صبح کو دوا جائے۔ کہا جاتا
 ہے ”أَتَيْتُهُ ذَا صُبُوخٍ“ یعنی صبح کے وقت میں
 اس کے پاس آیا۔

الصَّبَّاحِيَّةُ: بچوں کو سال کے آخر میں جو دیا
 جائے یا رحمتی والی رات دہن کو جو دیا
 جائے۔

الصَّبِيحُ: خوبصورت۔ صَبَّاحٌ: مَوْنَتْ
 صَبَّاحَةٌ: صبح صَبَّاحَ.

الصَّبَّاحَانُ: خوبصورت۔ مَوْنَتْ صَبَّاحِي
 - صَبَّاحِي: وہ شخص جو صبح کی شراب
 پئے۔

رَجُلٌ صَبَّحَانٌ: جلدی صبح کی شراب پینے
 والا۔

الصَّبَّاحِيَّةُ: خوبصورتی۔

المُصْبَحُ: صبح کرنا۔ صبح کرنے کا وقت۔ صبح
 کرنے کا مقام۔

المِصْبُوحُ: بڑا پیالہ۔ چراغ۔

المِصْبَاحُ: چراغ۔ چوڑہ نیزہ۔ بڑا پیالہ۔
 جس میں صبح کی شراب پی جائے۔ صبح
 مَصَابِيحُ.

صَبْرٌ: (ض) صَبْرًا. عَلِيُّ الْأَمْرِ: دلیری
 کرنا۔ بہادری کرنا۔ صفت صَابِرٌ صَبِيرٌ
 صَبُورٌ عَنِ الشَّيْءِ: روک جانا الذَّابَّةُ

: جانور کو بغیر چارہ کے باندھ رکھنا ه: مجبور
 کرنا اور لازم کر دینا ه: عَنِ الْأَمْرِ: روک

دینا۔ بند کر دینا۔ (کام سے) اسی سے
 ہے۔ صَبْرٌ نَفْسِي عَنْ كَذَا: یعنی میں
 نے اپنے نفس کو فلاں چیز سے روک دیا۔

وَصَبْرٌ عَلَيَّ مَا أَحْكُرُهُ وَصَبْرٌ عَمَّا
 أَحِبُّ: جس چیز کو میں کر رہا ہوں اس
 سے اپنے آپ کو روک دیا اور جس چیز کو

محبوب سمجھتا ہوں اس سے سبر کیا۔ کہا جاتا
 ہے ”قَبْلَ صَبْرًا“ وہ قتل کے لئے بند کیا گیا۔
 وَخَلِيفَ صَبْرًا: قسم کھانے کے لئے بند کیا
 گیا۔

صَبْرٌ: (ن) صَبْرًا وَصَبْرًا بِهِ: ضامن
 ہونا۔

..... ه: ضامن دینا۔ کہا جاتا ہے أَصْبِرُنِي:
 یعنی مجھ کو ضامن دو۔

صَبْرَةٌ: صبر دلانا۔ صبر کرنے کو کہنا
 السَّمِيثُ: مردہ کے پیٹ میں ایلو اڈا لانا تاکہ
 بدبودار نہ ہو۔ صَبْرُ الْكَلْبِ: پیالہ کو بالاب
 بھرنا۔

أَصْبِرُ. اللَّيْنُ: کھٹے پن کا تلخی تک پہنچ جانا۔
 ایلوے کی مانند کڑوا ہونا۔ صبر دلانا
 الرَّجُلُ: ام صبور: یعنی مصیبت میں پڑنا۔

شیشی کو کاگ لگانا الْقَاضِي فَلَانًا: قاضی
 کا خصم سے بدلہ دلانا۔

صَابِرَةٌ صَبَارًا وَمُصَابِرَةٌ: صبر کرنے میں غالب رہنا۔ تَصْبِيرٌ: تکلف سے صبر ظاہر کرنا..... عَلَيَّهِ: صبر کرنا۔ إِصْطَبِرَ وَاصْبِرْ عَلَيْهِ: صبر کرنا..... مِنْهُ: بدل لینا۔ إِصْبَارًا إِصْبِيرًا عَلَيْهِ: صبر کرنا۔ إِسْتَصْبَرَ الشَّيْءُ: ہونا ہونا۔ سخت ہونا۔ تہہ ہونا۔ الصَّبْرُ: بہادری۔ مصیبت کی شکایت نہ کرنا۔ شَهْرُ الصَّبْرِ: رمضان کا مہینہ۔ يَجِيئُ الصَّبْرُ: وہ قسم جس کو کھانے کے لئے قید کر دیا جائے۔ الصَّبْرُ وَالصَّبْرُ: کنارہ۔ سفید بال۔ جِ اصْبَارٌ کہا جاتا ہے "أَخَذَ الشَّيْءُ بِأَصْبَارِهِ" یعنی پورا لے لیا۔ "فَلَا الْكَمَّاسَ الْبَسِي أَصْبَارَهَا" پیالے کو کنارے تک بھر دیا۔ الصَّبْرُ وَالصَّبْرُ: کنکریلی زمین جو سخت نہ ہو۔ الصَّبْرُ: برف۔ جِ اصْبَارٌ. الصَّبْرُ: البوا۔ جِ صُبُورٌ واحد صَبْرَةٌ: اس لفظ میں ب کو بہت کم ساکن کیا جاتا ہے۔ الصَّبْرَةُ: قلعہ کا ڈھیر۔ سخت پتھروں کا ڈھیر۔ جمع صَبَارٌ کہا جاتا ہے "أَخَذَهُ صَبْرَةٌ" یعنی بغیر وزن اور پیمانے کے کل لے لیا۔ الصَّبِيرُ: قا۔ أَبُو صَابِرٍ: نمک۔ الصَّابِرُونَ: بوجھ جو سواری یا کشتی جہاز وغیرہ میں رکھا جائے تاکہ ادھر ادھر نہ جھکنے پائے۔ الصَّبْرَةُ وَالصَّبَارَةُ: سخت سردی۔ صَبْرَةٌ الشِّتَاءِ: سردی کا درمیانی زمانہ۔ الصَّبَارُ: کاگ۔ ایک کٹے درخت کا پھل۔ الصَّبَارَةُ: خنات۔ سردی کی شدت۔ وَالصَّبَارَةُ: چکنے پتھر۔ الصَّبَارُ وَالصَّبَارُ: اٹلی۔ ناگ۔ پھنی۔ واحد صَبَارَةٌ. صَبَارَةٌ: صَبَارَةٌ. الصَّبَارَةُ: بجر سخت زمین۔ الصَّبُورُ: جِ صَبْرٌ: بردبار۔ یہ اللہ تعالیٰ	کے اسمائے حسنی میں سے ہے (.....) وَالصَّبَارُ: بہت زیادہ صبر کرنے والا۔ الصَّبُورَةُ: مِنَ الرِّجَالِ: قتل کے لئے قید کیا ہوا۔ الصَّبِيرُ: صبر کرنے والا۔ ضامن۔ قوم کا چودھری۔ جِ صَبْرَاءُ. الصَّبِيرُ وَالصَّبِيرَةُ: چوڑی روٹی۔ أُمُّ صَبَارٍ وَأُمُّ صَبُورَةٍ: مصیبت۔ الصَّبُورُ: قتل کے لئے قید کیا ہوا۔ ڈھیر۔ مَوْثٌ مَّصْبُورَةٌ. صَبَّصَبَ: متفرق کرنا۔ تَصَبَّصَبَ: متفرق ہونا۔ تَصَبَّصَبَ اللَّيْلُ: رات کا اکثر حصہ گزر جانا..... الحُرُّ: گرمی زیادہ ہونا..... عَلَيْنَا فَلَانٌ: بہت جرأت کرنا۔ الصَّبَّصَابُ وَالصَّبْبُ وَالصَّبَابُ: سخت مضبوط۔ صَبَّعَ: (ف) صَبَّعًا. يَهْ وَعَلَيْهِ: انگلی سے اشارہ کرنا..... فَلَانًا عَلَيْنِهِ: اشارہ سے رہنمائی کرنا۔ صَبَّعَةً: (ف) صَبَّعًا وَمُصَبَّعَةً: متکبر بنانا۔ اسی سے ہے "مَنْ وُلَّاهُ السُّلْطَانُ صَبَّعَهُ الشَّيْطَانُ" جس کو سلطان والی بنا دیتا ہے۔ شیطان اس کو متکبر بنا دیتا ہے۔ انگلی پر مارنا۔ صَبَّعَ الشَّيْءُ: کسی چیز میں انگلی داخل کرنا..... بَيْنَ القَوْمِ: کسی دوسرے کو قوم کا پتہ بتا دینا۔ فِي الطَّعَامِ: کھانے میں انگلی ڈالنا۔ الأَصْبَعُ الأَصْبَعُ الأَصْبَعُ الأَصْبَعُ الأَصْبَعُ: انگلی۔ مَوْثٌ: سماعی ہے کبھی مذکر بھی آتا ہے۔ جِ أَصْبَاعُ أَصْبَاعِ الفَتِيَاتِ: ایک پھول کی قسم۔ فَرَجْمَشْكَ أَصْبَاعِ العَذَارَى أَوْ أَصْبَاعِ العُرُوسِ: انگوڑی کی قسم جو لمبی ہوتی ہے۔ المُصَبَّعَةُ: غرور۔ تکبر۔ محمد۔ أَصْبَاعُ الأَيْدِ: ہاتھ کی انگلیاں۔ جِنْصَرٌ: (چنگلیا) بِنْصَرٌ: (چنگلیا کے ساتھ والی) أَوْسَطُطِي: (درمیان والی)	سُبَّابَةٌ: (انگشت شہادت) الأَبْهَامُ: (انگوٹھا)۔ المُصْبُوعُ: گھنڈی۔ متکبر۔ المُصْبَعُ: گوشت بھوننے کا پیچہ۔ صَبَّعَ: (ن ض ف) صَبَّعًا وَصَبَّعًا. القَوْبُ: کپڑے کو رنگنا..... يَدُهُ فِي المَاءِ: پانی میں ہاتھ ڈبانا..... يَدُهُ بِالْعَمَلِ: کام میں مشغول ہونا۔ فَلَانًا بِالنَّعِيمِ: نعمتوں سے چھپا دینا۔ صَبَّعَهُ بِالمَاءِ فَاصْطَبَّعَ: پانی سے پشمہ دینا۔ کہا جاتا ہے "صَبَّعُونِي فِي عَيْنِكَ" یعنی انہوں نے میری برائی تمہارے سامنے بیان کر کے میری کیفیت بدل دی۔ صَبَّعَ: (ن) صَبَّعًا. ضَرْعُ النَّاقَةِ: اُوْتُئِي کے صحن کا بھر جانا اور خوش رنگ ہونا۔ صَبَّعَ: گہرا رنگنا..... وَأَصْبَغَ: کھجور کا پکنے لگانا۔ أَصْبَغَ عَلَيْهِ اليَغْمَةَ: کال کرنا۔ تَصَبَّعَ: فِي دِينِهِ: دین میں کال دینا۔ پختہ ہو جانا۔ إِصْطَبَّعَ: سائلن لگانا۔ کہا جاتا ہے "إِصْطَبَّعَ بِالمُخْلِ أَوْ فِي المُخْلِ" اس نے سرکہ کو سائلن بنایا۔ بَغْدًا: زمین ہونا۔ الصَّبَّعُ وَالصَّبَّعُ جِ أَصْبَاعٌ وَالصَّبَاعُ: جِ أَصْبَغَةُ وَالصَّبَّغَةُ: رنگ۔ الصَّبَّعُ: سائلن۔ الصَّبَّغَةُ: نوع۔ ملت۔ دین۔ پشمہ کا رنگ۔ الصَّبَّغَةُ: ادھ پکری کھجور۔ الصَّبَاعَةُ: رنگریزی کا پیشہ۔ الصَّبَائِغُ: رنگنے والا۔ لقب ہے یوحنا کا۔ الصَّبَّغُ: رنگا ہوا۔ کہا جاتا ہے "قَوْبٌ صَبَّغٌ يَبَابُ صَبَّغٌ". الصَّبَّاعُ: رنگریز۔ جھوٹا۔ الأَصْبَغُ: بڑا سیلاب..... مِنَ الطَّيْرِ وَالنَّسَاءِ: پرندہ یا بکری جس کی دم سفید ہو..... مِنَ العُخْبَلِ: گھوڑا جس کی پیشانی یا کان کے اطراف سفید ہوں۔ مَوْثٌ صَبَّغَاءُ. جِ صَبَّغٌ.
---	---	---

المضغفة: رنگنے کی جگہ۔

صَبَنَ: (ض) صَبْنَا. الشَّى عَنهُ: روک دینا۔ دوسری چیز کی طرف پھیر دینا..... الْمُقَامِرُ الكَعْبَيْنِ: جواری کا پانسہ کو پھینکنے کے لئے درست کرنا۔

إِنصَبَنَ وَإِصطَبَنَ. عَنهُ: رک جانا۔ پھر جانا۔

الصَّابُونُ: صابن۔ کلمہ فارسی الاصل ہے۔ عربی میں (غاسول) کہتے ہیں۔ ایک کلمے کو (صابونہ) کہتے ہیں اور اس کے بیچے ڈالنے اور بنانے والے کو صَبَّانٌ وَصَابُونِي کہتے ہیں۔

الصَّابُونِيَّةُ: ایک قسم کا پودہ جس سے دھویا جاتا ہے۔

المضغفة: صابون کا کارخانہ۔

صَبَا يَصْبُو صَبْوَةً وَصُبَّوْا إِلَيْهِ وَكَلَهُ: مشتاق ہونا۔

صَبَا يَصْبُو صَبْوًا وَصَبَّوْا وَصَبَّاءُ وَصَبَّاءُ: بچپن کی طرف مائل ہونا۔ بچوں کی سی خصلت اختیار کرنا۔ صفت صَابٍ: مؤنث صَابِيَّةٌ۔

صَبَّ صَبَّاءً وَصُبَّوْا. الرِّيْحُ نَبْدُوْا: ہوا کی ہوا کا چلنا۔

صَبِيٌّ وَاصْبِيٌّ. القَوْمُ نَبْدُوْا: ہوا کی ہوا کا لگنا۔ اصْبِيٌّ. الرِّجْلُ يَنْجُوْا: اٹھنے والا ہونا۔ اصْبِيٌّ الشَّىءُ فَلَاحًا: شوق میں ڈال دینا۔ کہا جاتا ہے اصْبَعَةُ المَكَاوِمِ: اس کو مکارم نے شوق میں ڈال دیا۔

صَبِيٌّ يَصْبِي صَبَّاءً وَاصْتَصَبِيٌّ: بچوں جیسا کام کرنا۔ صَبِيٌّ إِلَيْهِ: مشتاق ہونا۔ اِسْتَصْبَاهُ: کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا جیسا بچوں سے کیا جاتا ہے۔

صَابِيٌّ مُصَابَاةٌ: تیز مارنا۔ تیزے کو مارنے کے لئے جھکانا..... السَّيْفُ: تلوار کو میان میں اُلْمِي طرف سے کرنا..... الكَلَامُ: بے قاعدہ بولنا..... نَبَّ الشَّعْرُ: اچھی طرح نہ پڑھنا۔

تَصَبَّى تَصَبَّيًّا وَتَصَابِي تَصَابِيًّا: کھیل کود کی طرف مائل ہونا..... السَّمْرَانَةُ: عورت کو فریب دینا اور مقنون بنانا۔ تَصَبَّاهُ الشَّىءُ: شوق میں ڈالنا۔

الصَّبَا: نَبْدُوْا: ہوا (مؤنث ہے) اس کے مقابل کی ہوا کا نام ذُبُوْرٌ ہے۔ مثلاً اس کا صَبْوَانٌ اور صَبَّيَانٌ اور مَجْمَعٌ صَبْوَاتٌ اور اصْبَاءٌ۔

الصَّبَا: شوق۔ الصَّبَاءُ وَالصَّبَاءُ: بچپنا۔ کہا جاتا ہے "رَأَيْتُهُ فِي صَبَاهٍ أَوْ فِي صَبَائِهِ" یعنی اس کو بچپن میں دیکھا تھا۔

الصَّبُوَّةُ: بچپن۔ جوانی کی نادانی۔

الصَّبِيُّ: بچہ جو جوان سے کم عمر ہو۔ آنکھ کی پتلی۔ صَبَّيَانٌ وَصَبَّيَانٌ وَصَبْوَانٌ وَصَبْوَانٌ وَأَصْبِيَّةٌ وَصَبِيَّةٌ وَصَبِيَّةٌ وَصَبْوَةٌ وَأَصْبٌ مَوْثٌ صَبِيَّةٌ۔ صَبَّيًّا. الصَّبِيَّةُ: لڑکی۔ الصَّبِيٌّ: تلوار کی دھار۔ پاؤں کا بچہ۔ کہا جاتا ہے "بِهْ وَجَعٌ فِي صَبِيٍّ قَدِيمٍ" اس کے بچے میں درد ہے۔ الصَّبَّيَانُ: ڈاڑھی کے کنارے جو ٹھوڑی کے قریب ہیں۔

الصَّبِيَّةُ الْأَصْبِيَّةُ: صَبِيٌّ: کی جمع صَبِيَّةٌ اور أَصْبِيَّةٌ: کی تصغیر ہے۔

الصَّبَابِيَّةُ: پروائی اور شمالی ہوا کے درمیان کی ہوا۔ الْمُصَابِيَّةُ: مصیبت۔

صَتَّةٌ: (ن) صَتًّا: زور سے دھکا دینا۔ ہاتھ سے مارنا..... بِكَلَامٍ أَوْ بِسَدَاهِيَّةٍ: تہمت لگانا۔ مصیبت ڈالنا۔

صَاتَهُ مُصَاتَةً وَصَاتَا: جھگڑا کرنا۔

تَصَاتَّ القَوْمُ: آپس میں جھگڑا کرنا۔ آپس میں جگ کرنا۔

الصَّتُّ وَالصَّتُّ وَالصَّتَّةُ: جماعت الصَّتِّ وَالصَّتَّةُ: ضد۔ ہٹ۔

الصَّتُّ: درد ہے۔ کہا جاتا ہے "هُوَ بِصَّتِيَّةٍ" وہ اس کے درد پے ہے۔

الصَّتِيَّةُ: جماعت۔ آواز۔ شور۔

المضغيت: اپنے کاموں میں مستعد۔ صَتَعَةٌ: (ف) صَعًا: پچھاڑ دینا..... لَعْنَةُ: کسی کا قصد کرنا۔

تَصَعُّعٌ: کسی کام میں تردد کرنا۔ الصَّعُّعُ: مضبوط جوان۔ گورخر۔

صَتَمٌ. الشَّىءُ: بھل کرنا۔ تَصَتَمٌ: تیز دوڑنا۔

الصنم والسنم: سخت مضبوط۔ کامل مضبوط الصنمة والسنمة: سخت پتھر۔

المصنم: گلی یا وادی جو غیر نافذ ہو۔

صَبْحٌ: (ن) صَبْحًا: لوہے پر لوہا مارنا جس سے آواز نکلے۔

الصُّبْحُ وَالصُّبْحِيُّ: لوہے پر لوہا گرنے کی آواز۔ جھکار۔

صَحٌّ: (ض) صُحًا وَصِحَّةٌ وَصَحَّاحًا: تندرست ہونا۔ ہر عیب سے پاک صاف ہونا..... الصَّخْرُ: مطابق واقع ثابت ہونا۔ صفت

صَحِيحٌ وَصَحَّاحٌ: کہا جاتا ہے "صَحَّ لِي عَلَى فُلَانٍ كَذَا" یعنی میرے لئے قلائد پر اتنا ثابت ہوا۔

صَحَّحَ الصَّرِيضُ: تندرست کر دینا۔ چنگا کر دینا..... الْكِتَابُ: کتاب کی غلطی درست کر دینا۔

أَصَحَّهُ إِصْحَاحًا: تندرست کرنا یا تندرست پانا۔ مرض کا زائل کر دینا۔ أَصَحَّ الرِّجْلُ: آدمی کا تندرست بال بچے یا مویشی والا ہونا۔

تَصَحَّحَ: بِكَذَا: قلائد چیز سے علاج کرنا۔ اِسْتَصَحَّ: مِنْ مَرَضِهِ: مرض سے تندرست ہونا..... الكَلَامُ: صحیح پانا۔

الصَّحَّةُ: صحت۔ تندرستی۔

الصَّحَّاحُ: صحت۔ مِنَ الطَّرِيقِ: راستہ کا دشوار حصہ۔

الصَّحِيحُ: تندرست۔ عیب و غیرہ سے بری۔ بھروسے کے قابل۔ جِ أَصْحَاءٌ وَصَحَّاحٌ وَأَصْحَةُ صَحَّاحٍ

المصح: صحت کی جگہ۔

الصَّخْرُ: سرخ سفید رنگ۔ الصَّخْرَاءُ: بیابان جس میں نباتات نہ ہو۔ ج صَحَارَى صَحَارَى وَ صَحَارَى وَ صَخْرَاوَاتِ. الصَّخِيرَةُ: دودھ جو ابالا جائے اور اس میں گھی اور آٹا ملا دیا جائے۔ الصُّصَاجِرُ: وہ شخص جو اپنے مقابل سے بیابان میں جنگ کرے اور فریب نہ دے۔ الصُّصَجِرُ: شیر۔ الصُّصَخُ: الامرُ: روشن ہونا۔ ظاہر ہونا۔ الصُّصُحُحُ وَالصُّصُحَاخُ وَالصُّصُحَاخَانُ : ہموار زمین جو نباتات وغیرہ سے خالی ہو۔ ج صَّصَاصِحُ. الثَّرَهَاتُ الصَّصَاصِحُ و الثَّرَهَاتُ الصَّصَاصِحُ: لغویات۔ خراقات۔ اضافت کے ساتھ بہتر ہے۔ الصُّصُحُحُ وَالصُّصُحُوحُ. مِنَ الرَّجَالِ: مرد ہر ایک میں۔ الصُّصُصُحُحُ: خالص محبت والا۔ باطل کوش۔ صَّصَفُ. الْكَلِمَةُ: پڑھنے میں غلطی کرنا۔ أَصَّصَفُ. الْكِتَابُ: کتاب میں محققوں کو جمع کرنا۔ تَصَّصَفُ. الْقَارِئُ: پڑھنے میں غلطی کرنا۔ کہا جاتا ہے "تَصَّصَفْتُ عَلَيْهِ الصَّصِيفَةُ" یعنی صحیفہ میں کلمہ اس پر خفیہ ہو گیا۔ الصَّصُفَةُ: بڑا چوڑا پیالہ جس سے پانچ آدمی آسودہ ہو جائیں۔ ج صَّصَا فِ. الصَّصَا فِ: چھوٹے چھوٹے چشمے۔ الصَّصَا فَاةُ: ایلڈیری۔ عَالَمُ الصَّصَا فَاةِ: محررین اخبار۔ الصَّصِيفَةُ: لکسا ہوا کاغذ۔ ورق۔ صَّصِيفَةُ الْوَجْهِ: چہرے کی کھال۔ کہا جاتا ہے صُنَّ صَّصِيفَةً وَجْهَكَ: اپنے چہرے کی کھال کو بچاؤ۔ ج صَّصَا فِ وَصَّصَفُ. الصَّصِيفَةُ: چھوٹا پیالہ جس سے ایک آدمی آسودہ ہو۔ الصَّصِيفُ: روئے زمین۔	ہو۔ الصَّصَجَابِيُّ: جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف منسوب ہوں۔ نیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے فرد واحد (رضی اللہ عنہ) الصُّصَا جِبُ: ساتھ رہنے والا۔ دشواری سے فرما تیردار ہونے والا۔ الصُّصُصَبُ: پاگل آدمی جو خود بخود باتیں کرے۔ غَوْدُ صُصَبُ: وہ ککڑی جس سے چھلکا علیحدہ نہ کیا گیا ہو۔ اَدَيْمُ صُصَبُ: وہ چیز جس سے بال دور نہ کئے گئے ہوں۔ الصُّصُصَبُ وَالْمُصَّصَابُ: فرما تیردار۔ ذیل۔ اَدَيْمُ صُصَبُ: جس چیز سے پر بال یا اون ہوں۔ غَوْدُ صُصَبُ: وہ ککڑی جو چھیلی نہ گئی ہو۔ الصُّصُصُوبُ: مفتح۔ اَدِيمُ مصحوب: وہ چیز جس پر سے بال نہ اتارے گئے ہوں۔ غَوْدُ صُصُوبُ: وہ ککڑی جس پر سے چھال دور نہ کی گئی ہو۔ کہا جاتا ہے "اَذْهَبْ مُصَّصُوبًا مُصَّصَابًا" یعنی محفوظ خیریت و عافیت کے ساتھ جاؤ۔ صَّصَرُ: (ف) صَّصَرًا. اللَّيْنُ: دودھ کو ابالنا۔ صَّصَرْتُهُ الشَّمْسُ: دھوپ کا دماغ کو تکلیف پہنچانا۔ صَّصَرُ: (ف) صَّصِيرًا وَصَّصَارًا. الْجِنَارُ: گدھے کا زور سے ریگانا۔ صَّصِرُ: (س) صَّصَرًا: سرخی مائل مٹیالا ہونا۔ صفت اصحر مؤنث صَّصَرَاءُ ج صَّصَرٌ اور رنگ کا نام صَّصْرَةٌ. أَصَّصَرُ: جنگل کی طرف جانا..... الْمَكَانُ: جنگل کی مانند وسیع ہونا..... الْأَمْرُ وَالْأَمْرُ: ظاہر کرنا۔ کہا جاتا ہے "لَا تُصَّصِرْهُ أَمْرًا" یعنی اس کے سامنے اپنے امر کو ظاہر نہ کرو اور "أَصَّصِرْ مَا فِي قَلْبِكَ" یعنی اپنے مافی الضمیر کو ظاہر کرو..... الرَّجُلُ: کانا ہونا۔ أَصَّصَارًا أَوْ صَّصِيرًا: سرخی مائل مٹیالے رنگ والا ہونا۔	الصَّمِصَّةُ وَالْمَصْمِصَةُ: محبت دینے والی۔ صحت محفوظ رکھنے والی۔ کہا جاتا ہے "الصُّومُ مَصْمِصَةٌ" یعنی روزہ صحت دینے والا ہے یا صحت کا حافظ ہے و "أَرْضٌ مَصْمِصَةٌ" ایسی زمین جو وہابی امراض سے پاک ہو یا جس میں بیماریاں وغیرہ زیادہ نہ ہوتی ہوں۔ صَّصَبُ (س) صُصْبَةٌ وَصَّصَابَةٌ وَصَّصَابَةٌ وَصَّصَابَةٌ مُصَّصَابَةٌ: ساتھی ہونا۔ دوستی کرنا۔ ایک ساتھ زندگی بسر کرنا۔ صَّصَبُ (ف) صَّصَبًا. الْمَذْبُوحُ: کھال اتارنا۔ أَصَّصَبُ. الرَّجُلُ: ساتھی والا ہونا۔ بیٹے کا بالغ ہو کر اپنے ہی مانند ہونا۔ دشواری کے بعد تاجر ہونا..... الْمَاءُ: پانی کا کائی والا ہونا..... هَلَلْنَا: محفوظ رکھنا..... هَلَلْنَا عَنْ كَذَا: روک دینا..... هَلَلْنَا الشَّيْءَ: ساتھ کر دینا۔ تَصَّصَبُ. جِنَةٌ: شرم کرنا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ مَا يَتَّصَّصَبُ مِنْ شَيْءٍ" یعنی فلاں نہ تو پر ہیز کرتا ہے اور نہ شرم کرتا ہے۔ إِصْطَبَّ. فَلَانًا: حفاظت کرنا۔ إِصْطَبَّوْا: ایک دوسرے کا ساتھی ہونا۔ إِنْتَصَبَ: ساتھی بنانا۔ ساتھی بننے کے لئے کہنا۔ ساتھی بننا۔ اِنْتَصَبَ الشَّيْءُ: کسی چیز کو ساتھ رکھنے کے لئے کہنا..... الشَّيْءُ: کسی چیز کو ساتھ کر دینا۔ الصَّصَا جِبُ: ساتھی۔ ایک ساتھ زندگی بسر کرنے والا۔ مالک۔ وزیر۔ گورنر۔ کہا جاتا ہے "صَّصَا جِبُ حَمَاةٍ" یعنی حاکم حماة اور "يَا صَّصَا حُ" یا صاحب کی ترجمیم ہے۔ ج صَّصَبُ وَأَصَّصَابُ وَصَّصْبَةٌ وَصَّصَابُ وَصَّصَابَانُ وَصَّصَابَةٌ وَصَّصَابَةٌ: اور اصحاب کی جمع اصحاب۔ الصَّصَا جِبَةُ: صاحب کا مؤنث۔ بیوی۔ ج صَّصَابَاتُ وَصَّصَا جِبُ. الصَّصَابِيَّةُ: وہ حضرات (رضی اللہ عنہم) جو سرور کائنات ﷺ کے دیدار سے مشرف ہوئے ہوں اور ایمان لائے اور ایمان ہی پر انتقال ہوا
---	--	--

<p>وَصُخُوبٌ وَصُخْبِي.</p> <p>صَخِبَ: (س) صَخَدًا وَصَخَدَانًا.</p> <p>صَخَدَتْهُ: (ف) صَخَدًا. الشَّمْسُ:</p> <p>جلائل۔ الصُّرْدُ: لُورے کا آواز کرنا۔</p> <p>صَخَدَ: (ف) صُخُوذًا. إِلَيْهِ: کان لگانا۔</p> <p>أَصْخَدَ: الحَرُّ: گرمی تیز ہونا۔ الرَّجُلُ: گرمی میں داخل ہونا۔ الجَوْرِيَاءُ: گرگٹ کا دھوپ کھانا۔</p> <p>الصَّاحِبَةُ: دوپہری۔</p> <p>الصَّخْدَانُ وَالصَّخْدَانُ: سخت گرمی کا دن۔</p> <p>صَخِبَ: الشَّمْسُ: گردہ آفتاب۔</p> <p>هَاجِرَةٌ صُخُوذٌ: سخت گرم دوپہری۔ ج صَيَاخِيدٌ. صَيَاخِيدَ الحَرِّ: گرمی کی تیزی۔</p> <p>المُصْخِذَةُ: دوپہر۔ ج مُصَاخِدٌ.</p> <p>المُضْطَخِدُ: دھوپ میں کھڑا ہونے والا۔</p> <p>صَخْرَةٌ: فرمانبردار کرنا۔</p> <p>أَصْخَرَ: المَكَانُ: پتھر پلا ہونا۔ صفت مُصْخِرٌ.</p> <p>الصَّخْرَةَ وَالصَّخْرَةَ: بھوس بڑا پتھر۔</p> <p>ج صَخْرٌ وَصَخْرٌ وَصُخُوذٌ وَصُخُوذَةٌ وَصَخْرَاتٌ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ صَخْرَةُ الوَادِي" فلاں بہت مستقل ہے۔</p> <p>الصَّخْرُ: مِنَ الأَمَكِيَّةِ: پتھر ملی جگہ کہا جاتا ہے "هُوَ صَخْرُ الوَجْهِ أَوْ صَخْرُ الوَجْهِ" یعنی وہ بے حیاء ہے۔</p> <p>الصَّخْرَةُ أَوْ صَخْرَةُ الوَجْهِ: انتہائی خوشبو والا درخت۔ جس کے پھولوں کی خوشبو دور دور تک پھیل جاتی ہے۔</p> <p>الصَّخِرُ: لوہے پر لوہے کی جھٹکار۔</p> <p>الصَّخِرَةُ: پینے کے لئے شئی کا پیالہ۔</p> <p>صَخَفَ: (ف) صَفَخًا. الأَرْضُ: زمین کھودنا۔</p> <p>المُصْخَفَةُ: زمین کھودنے کا آلہ۔ کدال۔</p> <p>صَخَفَتْهُ: (ن) صَخَفًا الثَّوْبُ:</p>	<p>دن کا بغیر بادل کے صاف ہونا۔ صفت</p> <p>صَخُو وَصَاحٌ وَمُضِحٌ..... السُّكْرَانُ:</p> <p>نشا تر جانا۔ الرَّجُلُ: بچپنے کی جہالت کو چھوڑ دینا۔ افاقہ میں آنا۔ صفت صَاحٌ. ج</p> <p>صَاحُونَ صَحَاةٌ: مَوْنُثٌ صَاحِيَةٌ ج صَاحِيَاتٌ وَصَوَاحٌ. أصحاه: ہوش میں لانا۔ اصْحَى القَوْمُ: آسمان کا قوم پر بے ابر ہونا۔</p> <p>الصُّخُو: کہا جاتا ہے "اسْمَاءٌ صُخُوٌ وَيَوْمٌ صُخُوٌ" یعنی آسمان اور دن بے ابر و باد ہیں اور یہ وصف بالصدر ہے۔</p> <p>المُصْخَاةُ: باعث افاقہ۔ کہا جاتا ہے "فِيهِ مَسْأَلَةٌ مِنْ كَرْبِ الأَهْمِ وَمُصْخَاةٌ مِنْ سُكْرِ الأَهْمِ" یعنی اس میں غم سے تسلی اور نشہ غم سے افاقہ ہے۔</p> <p>المُصْخَاةُ: برتن۔ طشت۔ پیالہ۔</p> <p>صَخَّ: (ن) صَخَا. الحَدِيدُ بِالْحَدِيدِ: لوہے کو لوہے پر مارنا۔ الصوت الاذُنُ: آواز کا کان کو بہرا کر دینا۔ صَخَا صَخِيحًا الحَدِيدُ: لوہے کا آواز کرنا۔ لحدِيثِهِ: کان لگانا۔</p> <p>الصَّخَّةُ: اسم مرة۔ باری (.....) والصَّخِجُ والصَّخِيحُ: پتھر یا لوہے کی آواز۔</p> <p>الصَّخِيحُ: خوف زدہ کئے کی آواز۔</p> <p>الصَّخَاةُ: سخت آواز جو بہرا کر دے۔</p> <p>صَحِبَ: (س) صَخِيحًا: شور مچانا۔</p> <p>صَاحِبَةٌ مُصَاحِبَةٌ: ایک دوسرے کا شور مچانا۔</p> <p>تَصَاخَبَ: القَوْمُ: باہم شور مچانا اور پیٹ کرنا۔</p> <p>إِصْطَخَبَ: الطَيْرُ أَوْ الضَّفَدَةُ: پرندیا مینڈک کی آواز کا غلط ہونا۔</p> <p>الصَّخَبُ: عس۔ شور۔</p> <p>الصَّاحِبُ وَالصَّحِبُ وَالصَّخَابُ وَالصَّخُوبُ وَالصَّخْبَانُ: شور مچانے والا۔ مَوْنُثٌ صَخِيحَةٌ وَصَخِيحَةٌ وَصَخَابَةٌ:</p>	<p>الصَّخَافُ: پڑھنے میں غلطی کرنے والا۔ کتب فروش۔</p> <p>الصَّخْفِيُّ: بغیر استاد کے کتب بینی سے علم حاصل کرنے والا۔ (.....) وَالمُصْخِفُ): پڑھنے میں غلطی کرنے والا۔</p> <p>المُصْخَفُ وَالمُصْخَفُ وَالمُصْخَفُ: مجلد کتاب۔ مُصَاحِفٌ: جمع۔</p> <p>المُصْخَفُ: تغیر کیا ہوا۔</p> <p>صَجَلٌ (س) صَخْلًا صَوْتُهُ: پڑی ہوئی آواز والا اور بھاری آواز والا ہونا۔ صفت صَجَلٌ وَأَصْحَلٌ.</p> <p>إِصْطَخَمَ: الرَّجُلُ: سیدھا کھڑا ہونا۔</p> <p>إِصْحَامٌ إِصْحِيمًا. النَّبَاتُ: پودہ کا بہت سرسبز ہونا۔ بزمی کا زردی سے ملنا۔ صفت أَصْحَمٌ: مَوْنُثٌ صَخْمَاءُ: رنگ۔</p> <p>صَخْمَةٌ..... الأَرْضُ: زمین کے نباتات کا متغیر ہونا۔ السُّزُجُ: سردی لگ جانا اور خشک ہونا شروع ہونا۔</p> <p>صَخَنَهُ (ف) صَخْنًا: مارنا۔ کہا جاتا ہے "صَخْنَةُ عَشْرِينَ سَوَاطًا" اس نے اس کو تیس کوڑے مارے۔ صَخْنَةُ بوجِلِيهِ: پیر سے مارنا۔ الرَّجُلُ: کسی کو پیالہ میں کچھ دینا۔ صَخْنَةُ دِينَارًا: دینار دینا۔ بَيْنَهُمْ: اصلاح کرنا۔</p> <p>الصَّخْنُ: چھوٹا پیالہ۔ بڑا پیالہ۔ گھر کا پانی حصہ اور اسی سے ہے "فَرَسٌ وَأَبْعُ الصَّخْنُ" صَخْنُ الذَّارِ: انگنائی الصَّخْنُ مِنَ الأَرْضِ: ہموار زمین۔ ج صُخُونٌ الصَّخْنَانُ: چھوٹا ایک قسم کا پاجا۔</p> <p>صَخْنًا. الأذُنَيْنِ: کان کے اندرونی حصے۔</p> <p>فَرَسٌ صُخُونٌ: لات مارنے والا گھوڑا۔</p> <p>الصَّخْنِيُّ وَالصَّخْنَلَةُ وَالصَّخْنَاءُ وَالصَّخْنَاءَةُ: چھوٹی تنک ملی ہوئی مچھلی۔</p> <p>المُصْخَنَةُ: برتن جو بڑے پیالے کی مانند ہو۔</p> <p>صَخَا يَصْخُو صَخُوًا وَصُخُوًا وَصَحِي يَصْحِي صَخًا وَأَصْحِي إِصْحَاءً. اليَوْمُ:</p>
---	--	--

آفتاب کا چھل دینا۔

إِصْطَنَعِمَ الرَّجُلُ: سیدھا کھڑا ہونا۔

صَحِيحِي يَضْحِي صَحَا. التَّوْبُ: کپڑے کا میلا ہونا۔ صفت صَح.

الصَّخَاةُ: میل پکیل۔ ایک قسم کی بیزی۔

صَدَّةُ: (ن) صَدًا. عَنِ كَذَا: روک دینا۔

منع کرنا۔ کہا جاتا ہے "صَدَّ السَّبِيلَ" یعنی

راستہ کے درے گھائی وغیرہ کی روک واقع

ہوگئی۔

صَدَّ (ن ش) صَدًا وَصُدُّوْا. عَنْهُ:

اعراض کرنا۔ صفت صَادٌ: جمع صُدَاد:

مؤنث صَادَةٌ: جمع صَوَادٌ وَصُدَاد.

صَدَّ: (ن ش) صَدِيْنًا. مِنَ الشَّيْءِ: جَحِي

پڑنا۔ چلانا۔

صَادَةٌ: مدافعت کرنا۔ کہا جاتا ہے "أَخَذَ

بِصَادَةٍ وَبِصَادَةٍ" یعنی وہ مدافعت کرنے

لگا۔

صَدَّ: تالی بجانا..... الجُرْحُ: پیپ دینا۔

أَصْدَةٌ: عَنِ كَذَا: منع کرنا۔ باز

رکھنا۔ الجُرْحُ: پیپ دینا یا بہ پڑنا۔

تَصَدَّدَ لَهُ: درپے ہونا۔

أَصْطَدَّتِ الْمَرْأَةُ: عورت کا پردہ کرنا۔

الصَّدُّ: مص..... الصَّدُّ: بلند بادل۔ وادی

کا کنارہ۔ أَصْدَادٌ وَصُدُودٌ.

الصَّدَدُ: درپے۔ قصد۔ میلان۔ کنارہ۔

الصِّدَادُ: پردہ۔ جِ أَصْدَةٌ

الصُّدُودُ: روکنے والا (مفعول بمعنی قائل)

چھوٹی کرتی۔

الصُّدَيْدُ: مص۔ پیپ خون سے ملی ہوئی۔

صَدِيْدَةُ الْفِضَّةِ: چھل ہوئی چاندی۔

الصُّدَادُ: سانپ چھل۔ پانی پر جانے کا

راستہ۔ جِ صَدَائِدُ.

صَدِيٌّ: (س) صَدًا وَصُدُّوْا (ک)

صَدَاءَةٌ. الْحَدِيْدُ: زنگ لگ جانا۔ صفت

صَدِيٌّ: مؤنث صَدِيَّةٌ..... الشَّيْءُ: زنگ

کے رنگ کے مشابہ ہونا۔ صفت أَصْدًا:

مؤنث صَدَاءَةٌ..... الرَّجُلُ: سیدھا کھڑا ہونا

اور دیکھنا۔

صَدًا: (ف) صَدًا وَصَدًا تَصَدِيَّةٌ

الشَّيْءُ: زنگ دور کرنا..... الْجَمْرَةُ: آئینہ کو

صاف کرنا۔

أَصْدَاهُ: مورچہ والا جیسا بنانا۔

تَصَدًّا: لَهُ: درپے ہونا۔

الصَّدَا: زنگ۔ مورچہ۔ رَجُلٌ صَدًا:

نازک بدن مرد۔

الصَّدِيٌّ: جس پر مورچہ لگ گیا ہو۔ کہا جاتا

ہے "رَجَعَ فَلَانٌ صَاعِرًا صَدِيًّا" فلاں شخص

لونا اس حال میں کہ اس پر زنگ کا دھبہ لگ

چکا تھا۔

الصَّدَاةُ: مورچہ کا رنگ۔

صَدَحَ: (ف) صَدْحًا وَصَدَاخًا. الرَّجُلُ

أَوْ الطَّالِبُ: سریلی آواز بلند کرنا۔ صفت

(صَادِحٌ وَصَدَاخٌ وَصِدْحٌ وَصِدَاخٌ

وَصُدُوحٌ وَصِدْجِيٌّ وَمِصْدَحٌ

وَمِصْدَاخٌ.

الصَّدْحُ: علم۔ خالی مکان۔ چھوٹا پتھر یا

ٹیلہ۔ شَيْءٌ صَدَحَ: سیاہ چیز۔ جِ صَدْحَانُ.

الصَّدْحَةُ وَالصَّدْحَةُ وَالصَّدْحَةُ: مہرہ

جس کو بطور تعویذ استعمال کیا جاتا ہے۔

صَدَرَ: (ن ش) صَدْرًا وَمِصْدَرًا. عَنِ

الْمَكَّانِ وَعَنِ الْمَاءِ: واپس ہونا..... إِلَى

الْمَكَّانِ: متوجہ ہونا..... الرَّجُلُ عَنِ كَذَا:

واپس کروینا)..... صُدُورًا) الْأَمْرُ: پیدا

ہونا۔ حاصل ہونا۔ واقع ہونا..... مِنْهُ: ظاہر

ہونا..... عَنَهُ: پیدا ہونا۔ تہجد لگانا۔

صَدْرَةٌ صَدْرًا: سینہ پر مارنا۔

صَدْرٌ: سینہ میں درد ہونا۔ صفت صَدْرُورٌ.

صَدْرَةٌ: واپس کرنا۔ آگے بڑھانا۔ صدر مجلس

میں بٹھانا۔ صَدْرُ الْكِتَابِ بَگْدَا: کتاب پر

کسی چیز سے شروع کرنا..... الْفَرَسُ:

گھوڑے کا آگے بڑھنا۔

کام کو شروع کرتا ہے اور ختم نہیں کرتا۔

صَادِرُهُ. عَلِيٌّ الشَّيْءُ وَبِهِ: اصرار کے ساتھ

مطالبہ کرنا۔

تَصَدَّرَ: صدر مجلس میں بیٹھنا کہا جاتا ہے

"تَصَدَّرَ الْمَجْلِسُ" مجلس میں سینہ نکال کر

بیٹھنا۔

..... الْفَرَسُ: گھوڑے کے آگے کو سینہ نکالنا۔

تَصَادَرُوا. عَلِيٌّ مَا شَاءَ وَ:

صدر ہوا۔

الصَّدْرُ: ہر چیز کا سامنے سے اوپر کا حصہ۔

سینہ۔ ہر چیز کا ابتدائی حصہ۔ ہر چیز کا ایک

نکڑا۔ تم کہتے ہو "أَخَذْتُ صَدْرًا مِنْهُ" میں

نے اس میں سے ایک حصہ لے لیا۔ صَدْرٌ

الْقَوْمِ: رئیس۔

الصَّدْرُ الْأَعْظَمُ: وزیر اعظم۔ جِ صَدْرُورٌ.

بَنَاتُ الصَّدْرِ: افکار۔

ذَاتُ الصَّدْرِ: سینہ کی ایک بیماری کا نام۔

صَدْرُ الْوَادِي: وادی کا اگلا اور اعلیٰ حصہ۔

کہا جاتا ہے "أَخَذَ الشَّيْءُ بِصَدْرِهِ" یعنی

اول حصہ کو لے لیا۔ فَلَانٌ يَعْبُدُ الصَّدْرَ

یعنی غیر مہربان۔

الصَّدْرُ: پانی پر سے واپسی۔ سفر سے

واپسی۔ صَادِرُ كَأَسْمِ جَحِي.

الصَّادِرُ: فَا۔ لوٹنے والا۔ پانی پر سے لوٹنے

والے پر عموماً بولا جاتا ہے اور اس کا مقابل

وارد ہے۔ یعنی پانی پر آنے والا اور اسی سے

ہے "مَالَةٌ صَادِرَةٌ وَلَا وَارِدَةٌ" یعنی اس کے

پاس کچھ نہیں۔ طَرِيقُ صَادِرٌ: پانی پر لے

جانے والا راستہ۔ طَرِيقٌ وَارِدٌ صَادِرٌ: ایسا

راستہ جس سے پانی پر لوگ آئیں جائیں۔

الصَّدْرَةُ: مِنَ الْإِنْسَانِ: سینہ یا سینے کا اوپر

کا حصہ۔ صدری۔ واسٹ۔

التَّصْدِيرُ: تنگ اونٹ کے سینے کا۔

صَادِرٌ: صدری۔ واسٹ۔

التَّصْدِيرُ: تنگ اونٹ کے سینے پر

نشان۔

الصَّدَاةُ: تقدّم۔ وزارت عظمیٰ کا عہدہ

(وَالصَّدِيْرَةُ): سینے کا اوپر کا حصہ۔ جِ

عَظْمِيٌّ كَالْعَبْدِ

عَظْمِيٌّ كَالْعَبْدِ

عَظْمِيٌّ كَالْعَبْدِ

عَظْمِيٌّ كَالْعَبْدِ

عَظْمِيٌّ كَالْعَبْدِ

عَظْمِيٌّ كَالْعَبْدِ

عَظْمِيٌّ كَالْعَبْدِ

عَظْمِيٌّ كَالْعَبْدِ

عَظْمِيٌّ كَالْعَبْدِ

عَظْمِيٌّ كَالْعَبْدِ

عَظْمِيٌّ كَالْعَبْدِ

عَظْمِيٌّ كَالْعَبْدِ

عَظْمِيٌّ كَالْعَبْدِ

عَظْمِيٌّ كَالْعَبْدِ

عَظْمِيٌّ كَالْعَبْدِ

عَظْمِيٌّ كَالْعَبْدِ

عَظْمِيٌّ كَالْعَبْدِ

عَظْمِيٌّ كَالْعَبْدِ

عَظْمِيٌّ كَالْعَبْدِ

عَظْمِيٌّ كَالْعَبْدِ

عَظْمِيٌّ كَالْعَبْدِ

عَظْمِيٌّ كَالْعَبْدِ

عَظْمِيٌّ كَالْعَبْدِ

عَظْمِيٌّ كَالْعَبْدِ

عَظْمِيٌّ كَالْعَبْدِ

عَظْمِيٌّ كَالْعَبْدِ

عَظْمِيٌّ كَالْعَبْدِ

عَظْمِيٌّ كَالْعَبْدِ

الصَّدْعُ: کپٹی۔ کپٹی کے بال۔ ج

أَصْدَاغٌ

الصَّدْعُ: کپٹی۔ میڑھاپن۔

الصِّدَاغُ: کپٹی پر نشان۔

الصِّدْيَعُ: کزور۔ تین دن کا بچہ۔

الأَصْدَاغَانُ: دونوں کپٹی کے نیچے کی رگیں۔

المِصْدَعَةُ: بگیہ۔

بَعِيْرٌ مُصْدَعٌ وَمُصْدُوْعٌ: کپٹی پر نشان والا

اَدْنَتْ۔

صَدَفٌ: (ن ض) صَدَفًا وَصُدُوْفًا: پھر

جانا۔

صَدَفٌ: (ض) صَدَفًا. عَنَهُ: اعراض کرنا

..... فَلَاتَا: پھیر دینا۔ ہٹانا۔

صَدَفٌ: (س) صَدَفًا: گھوڑے کی رانوں

کا قریب اور کھروں کا دور ہونا۔

أَصْدَفَهُ: عَنَهُ: پھیر دینا۔ ہٹا دینا۔

صَادَفَهُ: پانا۔

تَصَادَفَ: ایک دوسرے کے مقابل ہونا۔

الصَّدْفُ: پٹی۔

الصَّدْفَةُ: ایک پٹی۔ جِ أَصْدَافٍ. صَدْفَةٌ

الأَذْنُ: کان کا اندرونی حصہ۔

الصَّدْفُ: فی الخَيْلِ: رانوں کی نزدیکی

اور کھروں کی دوری۔ الصَّدْفُ الصَّدْفَةُ:

جانب۔ کنارہ۔

الصَّدْفُ وَالصَّدْفُ وَالصَّدْفُ وَالصَّدْفُ

: پہاڑ کا کنارہ۔ الصَّدْفُ: زبان اور جڑے

کا درمیانی حصہ۔

فَرَسٌ أَصْدَفٌ: وہ گھوڑا جس کی رانیں

قریب قریب اور کھروں دور ہوں۔

الأَصْدَافُ: سمندر کی موجیں۔

الصَّدْفَةُ: ملاقات۔

الصَّدْفِيَّاتُ: نرم مزاج جانور جو کہ پانی میں

زندگی بسر کرتا ہے اس میں ہڈی نہیں ہوتی

اور جلد پھلی کی طرح ہوتی ہے۔

الصَّدُوْفُ: گندہ ذہن۔ بہت اعراض

کرنے والا۔

المِصْدُوْفُ: مفع۔ چھپا ہوا۔

الصَّدْعُ: شکاف۔ جِ صُدُوْعٌ.

لِصَّدْعٍ وَالصَّدْعُ: ہلکا پھلکا مرد۔ قوی

جوان۔ صَدْعُ الْحَدِيْدِ: لوہے کا مورچہ

زنگ۔ کہا جاتا ہے "النَّاسُ عَلَيْهِمْ صَدْعٌ

وَاجِدٌ" لوگ ان کے اوپر عداوت میں متفق

ہیں۔

الصَّدْعُ: آدمیوں کی جماعت۔ دو برابر میں

پہنٹی ہوئی چیز کا آدھا حصہ۔

الصَّدْعَةُ: ام مرقۃ۔ پھن۔ پراگندگی۔

تَفَرَّقَ: جِ صَدَعَاتٍ: کہا جاتا ہے "زَأَيْتُ

بَيْنَهُمْ صَدَعَاتٍ" یعنی رائے اور خواہشات

میں اختلافات و"أَصْلِيْحُوْا مَا فِيكُمْ مِنْ

الصَّدَعَاتِ" یعنی جمع ہو جاؤ اور متفرق مت

ہو۔

الصَّدْعَةُ جِ صَدْعٌ وَالصِّدْيَعُ جِ صُدْعٌ:

بکریوں کا ریوڑ۔ اَدْنُوْلُ: دو برابر میں

پہنٹی ہوئی چیز کا آدھا حصہ۔ صَدْيَعٌ: بمعنی

مصدوع: ج۔ پھٹا ہوا کپڑا۔ وہ کپڑا جو زرہ

کے نیچے پہنا جائے۔

الصَّدَاغُ: در دوسرے۔

النَّصْدَاغُ: تفریق۔

المِصْدَعُ: سخت زمین میں نرم راستہ۔ جِ

مِصْدَاعٍ.

المِصْدَعُ: تیزہ۔ تیر۔ چھری کا چوڑا پھل۔

خَطِيْبٌ مِصْقَعٌ مِصْدَعٌ: بیخِ خَطِيْبٍ.

صَدْعُهُ (ف) صَدْعًا. عَنِ الأَمْرِ: باز

رکھنا۔ روکنا۔ سیدھا کرنا..... السَّمْلَةُ: چوٹی

کو مارنا۔

صَدْعُهُ (ف) صَدْعًا: موٹے سے

موٹے ہالما کر چلنا۔

صَدْعٌ: (ن) صَدْعًا وَصُدُوْعًا. إِلَى

الشَّيْءِ: مائل ہونا۔

صَدْعٌ: (ك) صَدَاغَةٌ: کزور و ناتواں

ہونا۔

صَدْعٌ: کپٹی کے درد میں مبتلا ہونا۔

صَادَعُهُ: موٹے سے موٹے ہالما کر چلنے

میں مقابلہ کرنا۔

صَدَّالِرٌ.

الأَصْدْرَانُ: مضبوط بڑے سینے والا۔

الأَصْدْرَانُ: کپٹی کے نیچے کی رگیں۔

المُصْدِرُ: جائے صدور۔ جِ مَصَادِرُ اور

اسی سے مصادر افعال ہیں اس لئے کہ مصادر

اشتقاق کے لئے اصل و جز ہیں۔

المُصْدِرُ: فَا-رَجُلٌ مُصْدِرٌ: کاموں کو پورا

کرنے والا۔

المُصْطِرُّ: قوی اور بڑے سینے والا۔ آگے

بڑھنے والا گھوڑا۔ شیر۔ بھیڑیا۔

صَدْعٌ: (ف) صُدُوْعًا. إِلَى كَذَا: مائل

ہونا۔

صَدْعٌ: (ف) صَدْعًا. الشَّيْءُ: اس طرح

پھاڑنا کہ جدا نہ ہو..... القَوْمُ: متفرق کر دینا

..... الأَمْرُ: ظاہر کرنا..... بِالْحَقِّ: حق بات

کو کھلم کھلا بیان کرنا..... فِي الأَمْرِ: کر گزرنے

..... الأَمْرُ بِالْحَقِّ: حق کا فیصلہ کرنا..... فَلَاتَا:

تصد کرنا۔ صَدْعُهُ عَنِ كَذَا: روک دینا.....

النَّهْرُ: کاٹ دینا..... فِي المَكَانِ: گزرتا۔

عَبْرًا کرنا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا الطَّرِيْقُ

يَصْدَعُ فِي أَرْضٍ كَذَا" یہ راستہ فلاں زمین

میں گزرتا ہے..... اللَّيْلُ: رات میں چلنا۔

صَدِعٌ وَصُدِعٌ: در دوسرے میں مبتلا ہونا۔

صَفَتْ مِصْدُوْعٌ.

صَدْعٌ. الشَّيْءُ: پھاڑنا..... الفَلَاةُ او

النَّهْرُ: بیابان یا نہر کو طے کرنا۔

تَصَدَّعَ. القَوْمُ: متفرق ہونا۔ تَصَدَّعَتْ

الأَرْضُ بِهِ: وہ زمین میں بھاگ کر غائب ہو

گیا۔

تَصَدَّعَ وَانْصَدَعَ. الشَّيْءُ: پھٹنا۔ کہا جاتا

ہے "تَصَدَّعَتْ وَانْصَدَعَتْ الأَرْضُ

بِالنَّبَاتِ" یعنی زمین میں روئیدگی ظاہر ہوئی۔

انْصَدَعَ الصَّبَاخُ: صبح کی روشنی پھیلنا۔

المِصْدَاعُ: فَا- قاصی۔ جبَلٌ صَادِعٌ: دور

تک پھیلا ہوا۔ پہاڑ۔ وَادٍ صَادِعٌ: دور تک

پھیل ہوئی وادی۔ سَبِيْلٌ صَادِعٌ: دور تک

پھیلا ہوا راستہ۔ صُبْحٌ صَادِعٌ: روشن صبح۔

صَدَقَ: (ن) صَدَقًا وَصِدْقًا وَمُصَدِّقَةً
تَصَدَّقًا: سَجَّ بَوْلًا..... فِي وَغْدِهِ وَوَعِيدِهِ:
پورا کرنا..... فی الجملة: بہادری ظاہر
کرنا۔ کہا جاتا ہے ”صَدَقَ الْقِتَالَ وَصَدَقَ
فَلَانًا الْقِتَالَ“ سخت جنگ کی..... ہ النصيحة
او المَحْبَةِ: خالص نصیحت یا محبت کرنا..... ہ
الحديث: سچی بات بیان کرنا۔ سچی خبر دینا۔
صَدَقَهُ: سچا جانا۔ سچا سمجھنا۔
صَادَقَهُ صِدْقًا وَمُصَادَقَةً: دوست بنا۔
صَادَقَهُ الْمَوَدَّةَ: خالص دوستی کرنا۔
أَصْدَقَ: الْإِيْنَةَ: بیلی کا مہر مقرر کرنا۔
تَصَدَّقَ: صدقہ دینا..... عَلَى الْفَقِيرِ بَعْدًا
فقیر کو کوئی چیز صدقہ میں دینا۔
تَصَادَقَا: محبت کرنا۔ دوستی کرنا۔ تَصَادَقَا
الحديث او المَوَدَّةَ او فِيهِمَا: ایک
دوسرے سے سچی بات کہنا یا خالص دوستی
کرنا۔
الصَّدَقُ: مہر۔ سیدھا شہسوز نیزہ ہویا
(کوئی اور چیز) کہا جاتا ہے ”رُمِحَ صَدَقٌ
وَقِنَاءَ صَدَقَةً“ سیدھا شہسوز نیزہ۔ کامل۔ کہا
جاتا ہے ”رَجُلٌ صَدَقٌ الْبَلَاءِ وَالنَّظَرِ“
ملاقات اور شفقت میں کامل شخص۔ ج
صَدَقٌ وَصَدَقٌ وَصَدَقُونَ: مَوْنٌ صَدَقَةٌ
ج صَدَقَاتُ.
الصَّدَقُ: سَجَّ - فضیلت۔ صلاح۔ سختی۔
مضبوطی۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ رَجُلٌ صَدَقٌ
وَصِدْقٌ صَدَقٌ“ مردانگی اور دوستی میں سچا
ہے۔ یعنی کامل ہے۔
الصَّدَقَةُ: خیرات۔ ج صَدَقَاتُ.
الصَّدَقَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالصَّدَقَةُ:
مہر۔
الصَّدَاقُ وَالصَّدَاقُ: مہر۔ ج أَصْدِيقَةٌ
وَصَدُقٌ.
الصَّدَاقَةُ: سچی دوستی۔
الصَّدَاقُ: سچا۔ تَمَرٌ صَادِقٌ الْخَلَاوَةِ:
بہت میٹھی کھجور۔ رِيَّةٌ صَادِقَةٌ: خالص
نیت۔ حَنْلَةٌ صَادِقَةٌ: شدید حملہ۔

الصَّدُوقُ: ہمیشہ سچ بولنے والا۔ ج صَدُقٌ
وَصَدُقٌ.
الصَّدِيقُ: پیارا دوست۔ ج أَصْدِيقَاءُ
وَصَدِّقَاءُ وَصَدِّقَانُ۔ ج أَصَادِقُ مَوْنٌ
صَدِيقَةٌ.
الصَّدِيقُ: بہت سچا۔ سچائی میں کامل۔ عمل
سے اپنی بات کو سچ کر دکھانے والا۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کا لقب۔
المُصَدِّقُ: کسی کی سچائی کا گواہ۔ کہا جاتا
ہے ”أَنَّ ذُو مِصْدِقٍ أَوْ ذُو مُصَدِّقٍ“ یعنی
بہادر ہے جگہ جو ہے یا تیز دوڑنے والا ہے۔
التَّصْدِيقُ: علم متفق میں وہ شے جس کے
وجود کے علاوہ اس پر حکم بھی لگا دیا جائے وہ
تصدیق ہے اگر وجود مانا جائے اور حکم نہ لگایا
جائے تو وہ تصور ہے۔
اس کی مثال: کسی حیوان کو دیکھ کر اس پر ناطق
یا غیر ناطق نہ لگانا تصور ہے۔
صَدَمَهُ: (ض) صَدْمًا: دھچکا۔ پٹانا۔
آ پٹانا۔ کہا جاتا ہے ”صَدَمَهُ أَمْرٌ شَدِيدٌ“
اس کے اوپر مصیبت آ پڑی۔ ”صَدَمَتْهُ
حُمِيًّا الْكَاثِرُ“ یعنی اس کے اوپر شراب کے
پیالہ کی تیزی کا اثر ہوا۔
صَادَمَهُ مُصَادَمَةً: مارنا۔
إِصْطَدَمَ وَتَصَادَمَ: الْفَارِسَانُ: ایک
دوسرے کو مارنا۔ ایک دوسرے کی مزاحمت
کرنا۔
الصَّدَامُ: جانوروں کے سر میں ایک بیماری۔
الصَّدْمَةُ: اہم مرتبہ۔ دفعۃً واحدۃً کہا جاتا
ہے ”صَرَغَةُ بِصَدْمَةٍ“ ایک ہی مرتبہ میں
پچھاڑ دیا۔ ”أَغْطَاهُ رِزْقٌ شَهْرَيْنِ بِصَدْمَةٍ“
دو مہینے کی روزی ایک ہی مرتبہ دے دی۔
الصَّدْمَتَانِ وَالصَّدِمَتَانِ: پیشانی کے دونوں
جانب۔
الْأَصْدَمُ: وہ شخص جس کی پیشانی کے دونوں
جانب کے بال گر گئے ہوں۔
رَجُلٌ مِصْدَمٌ: جگہ جو بہادر۔

صَدَّ يَصْدُو صَدْوًا وَصَدَّى: يَبْدِيهِ:
دونوں ہاتھوں سے تالی بجاتا۔
صَدَّى يَصْدِي صَدًى: سخت پیاسا ہونا۔
صفت صَدَّ وَصَادٌ وَصَدْيَانُ: مَوْنٌ صَدْيَا
وَصَادِيَةٌ ج صَوَادٍ: کہا جاتا ہے ”أَنَا
صَدْيَانُ إِلَى حَلْدِيكَ وَلِي أَخْشَاءُ
صَوَادٍ“ یعنی میں تمہاری بات چیت کا بہت
مشتاق ہوں۔ صَدَّى الشَّيْءُ: لمبا ہونا۔
صَادَاهُ مُصَادَاةٌ: مقابلہ کرنا۔ مدارات
کرنا۔
الْصَدْيُ: الْهَيْمَةُ: یعنی زمانہ جاہلیت کے
عقیدہ کے مطابق جب مقتول کو قبر میں ڈال
دیا جائے اور اس کا انتقام نہ لیا جائے تو میت
کی قبر سے ایک جانور باہر نکل کر آواز دیتا
ہے اور انتقام کا نعرہ لگاتا ہے۔ اس کو بوم
القبر (قبر کا آواز) یا الْهَيْمَةُ بولتے ہیں۔ نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جیسی لغویات
کا سختی سے رد فرمایا۔
صَدَّى تَصْدِيَةً: بَدِيَهُ: دونوں ہاتھوں سے
تالی بجاتا۔
أَصْدَى إِصْدَاءً: مَرَاتُ: السَّجْلُ: گونجا۔
آواز بازگشت کرنا۔
تَصَدَّى لَهُ: درپے ہونا..... بِالْأَمْرِ: کسی
معا ملے کے لئے متوجہ ہونا۔
الصَّدَى: سخت پیاس۔ آواز بازگشت۔
گونج۔ دماغ۔ انسانی لاش۔ تعرض۔ ج
أَصْدَاءُ: کہا جاتا ہے ”هُنَّ الْيَوْمَ أَعْدَاءُ وَهُمْ
غَدًا أَصْدَاءُ“ یعنی وہ آج کے دن دشمن ہیں
اور کل مُردہ ہوں گے ”وَمَنْعَتُ صَدَاهُ“ یعنی
اس کے درپے ہونے کو روک دیا۔ ”وَصَمَّ
صَدَاهُ“ یعنی ہلاک ہو گیا۔ ”وَأَصَمَّ اللَّهُ
صَدَاهُ“ یعنی ہلاک کر دے۔
الصَّدَى: الوبیٰ ایک قسم جس کا سر بڑا ہوتا
ہے اور چدر تم پھر و ادھر ہی اپنے سر کو پھراتا
ہے اور وہ اجازت تارک مقامات میں رہا کرتا
ہے اور اس کا نام ہامہ بھی ہے۔
زمانہ جاہلیت میں خیال تھا کہ یہ مقتول کے

سر سے لگتا ہے اور جب تک کہ اس مقبول کا بدلہ نہ لیا جائے پختہ رہتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پلاؤ مجھے پلاؤ اور اسی وجہ سے اس کو صدی کہا جاتا ہے۔

صِرٌّ: (ن) صِرًا، الصِّرَّةُ: تھیلی کو باندھنا..... الصِّرَافُ: تھیلی میں رکھنا..... الفِرْسُ أَذْنُهُ وَبِأُذُنِهِ: گھوڑے کا کان کھڑے کرنا..... النَّاقَةُ بِالنَّاقَةِ: جھن کو باندھ دینا تاکہ بچو دودھ نہ پی سکے۔

صِرٌّ: (ص) صِرًا وَصِرِيرًا، الشِّيءُ: چرچانا..... السَّرْجُلُ: زور سے پختہ چلانا۔ پیا سا ہونا۔ الأذُنُ: کان بچنا۔

صِرٌّ: النَّبَاتُ: شہنشاہی ہوا لگ جانا۔ صِرْوَتُ النَّاقَةِ: آگے بڑھنا۔ صِرْوَتُ أَذْنِهِ: سننے کے لئے کان کھڑے کرنا۔ صَارَةٌ مُصَارَةٌ: عَلِيٌّ كَذَا: مجبور کرنا۔

أَصْرٌ: عَلِيُّ الأَمْرِ: پختہ ارادہ کرنا۔ ثابت قدم رہنا اور اکثر برائی اور گناہوں میں استعمال کیا جاتا ہے "أَصْرٌ عَلِيُّ الذَّنْبِ"

جبکہ باز نہ آئے۔ قرآن مجید میں ہے ﴿كَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الجَنِّ العَظِيمِ﴾: یعنی بڑے بھاری گناہ پر اصرار کیا کرتے تھے..... السُّنْبُلُ: خوشے میں خار لگنا..... الفِرْسُ أَذْنُهُ وَبِأُذُنِهِ: گھوڑے کا کان کھڑے کرنا۔

الصِّرُّ وَالصِّرَّةُ: سردی۔ رینج صِرٌّ: سخت ٹھنڈی ہوا۔ تیز آواز والی ہوا۔ الصِّرَّةُ: چیخ۔

الصِّرَّةُ: شور۔ چیخ۔ لڑائی یا گرمی کی تیزی۔ ترش روئی۔ جماعت۔ تعویذ کے مہرے۔ الصِّرَّةُ: تھیلی۔ بُوءٌ: جِ صِرٌّ۔

يَمِينٌ صِرِّيٌّ: سخت قسم۔ کہا جاتا ہے "ہنی مِنِّي صِرِّيٌّ" یہ میری جانب سے کی بات ہے۔

الصِّرُّ: خوشکھار۔ واحد صِرَّةٌ. الصَّارُ: فَاءٌ شَجَرٌ صَارٌ: گھمان درخت۔ الصَّارَةُ: الصَّارُ: کامنٹ۔ حاجت۔

پیاں۔ جِ صَوَارٌ.

الصَّوْرُ وَالصَّارُورُ وَالصَّوْرِيُّ وَالصَّارُورِيُّ: جو نکاح نہ کرے اور جِ نہ کرے (واحد جمع دونوں کے لئے) الصَّارِيُّ: ملاح۔ جِ صَرَارِيُونُ.

الصَّوْرَارُ: دھاگا جس سے تھن کو باندھ دیا جائے تاکہ بچو دودھ نہ پی سکے۔ بلند مکان جس پر پانی نہ چڑھ سکے۔ جِ أَصْرَةٌ.

الصَّوْرَارُ: صَارٌ: کا اسم مبالغہ۔ صَرَارُ اللَّيْلِ: جھینگل۔

الصَّوْرَارَةُ: سانپ کھانے والا عقاب۔ الصَّوْرَارَةُ وَالصَّوْرُورَةُ وَالصَّارُورَةُ وَالصَّارُورَاءُ: وہ شخص جو نکاح نہ کرے اور جِ نہ کرے (واحد اور جمع دونوں کے لئے)

صَرَارُ اللَّيْلِ: نڈی کی مانند ایک سیاہ رنگ کیڑا جو رات کو آواز کرتا ہے۔

الصَّوْرَارَةُ: عقاب کی ایک قسم ہے جو سانپ کو کھا جاتا ہے۔ الصَّوْرِيَّةُ: تھیلی میں رکھے ہوئے دراہم۔ جِ صَوْرَابُو.

المَصَّارُ: آنتیں۔ المَصْرُورُ: مفتح۔ بندھا ہوا قیدی۔

صَرْبٌ: (ش) صَرْبًا: کاٹنا، کمانا، دودھ کو ترش بنانا۔ پیشاب یا دودھ کو روکنا..... الصَّبِيُّ: بچہ کا کسی دن پاخانہ نہ کرنا۔

صَرْبٌ: (س) صَرْبًا، اللَّبْنُ: جھن میں دودھ جمع ہونا۔

أَصْرَبٌ: إِلَيْهِ مَالًا: دینا۔ صَرْبٌ: ترش دودھ پینا۔

إِصْطَرَبَ: اللَّبْنُ فِي الوُطْبِ: دودھ کو ترش ہونے کے لئے برتن میں تھوڑا تھوڑا جمع کرنا۔

إِصْرَابٌ: الشَّيْءُ: صاف اور چمکانا ہونا۔ الصَّرْبُ وَالصَّرَبُ: بہت زیادہ ترش دودھ۔ سرخ گوند۔ بول کا گوند۔ واحد صَرْبَةٌ وَصَرْبَةٌ.

الصَّرْبُ: غریب عربوں کے گھوڑے مکانات۔

الصَّرْبُ: کھانا دودھ۔ جِ صَرْبٌ.

المَصْرُوبُ: مفتح۔ جمع کیا ہوا کھانا دودھ۔ المَصْرَبُ: برتن جس میں دودھ جمع کیا جائے۔ جِ مَصْرَابٌ.

صَرْجٌ: الحَوْضُ: حوض کو چونا، مٹی ملا کر بنانا۔

الحَوْضُ بِالنَّوْرَةِ: حوض پر چونے کی قلعی کرنا۔

الصَّارُوجُ: چونا مٹی ملا ہوا (مغرب) صَرْحٌ: (ک) صَرَاحَةٌ وَصَرْوَحَةٌ: صاف ہونا۔ خالص ہونا۔ واضح ہونا۔ صفت صَرِيحٌ: جمع صَرَحاء: مومنٹ صَرِيحَةٌ.

صَرْخٌ: (ف) صَرَخًا، الأَمْرُ: ظاہر کرنا۔ واضح کرنا۔

صَرْحٌ: المُتَكَلِّمُ: بغیر کنایہ کے کھلم کھلا کہنا بِمَا فِي نَفْسِهِ: ظاہر کرنا..... الأَمْرُ: واضح کرنا۔ الأَمْرُ: واضح ہونا..... لازم و متعدی ہے۔ النَّهَارُ: دن کا بے باول ہونا۔ الخَمْرُ: شراب کا صاف ہونا۔ بے جھاگ ہونا۔

مثال ہے "صَرْحَ الحَقِّ عَنِ مُخْصِبِهِ" یعنی حق پوری طرح ظاہر ہو گیا۔ صَرْحَتْ السِّنَةُ: خشک سالی ہوئی۔ صَرْحَ الرَّمِي: تیر انداز کا خطا کرنا۔

أَصْرَحَ: الأَمْرُ: ظاہر کرنا۔ واضح کرنا۔

صَارَحَهُ صَرَاحًا وَصَرَاحًا وَمُصَارَحَةً: کھلم کھلا کہنا۔ کہا جاتا ہے "نَسَمَةُ مُصَارَحَةً" او صَرَاحًا" رو رو گالی دی۔ صَارَخَ صَرْحٌ بِمَا فِي نَفْسِهِ: دل کی بات ظاہر کر دینا۔

إِنصَرَخَ: الحَقُّ: واضح ہونا۔ مکشف ہونا۔ تَصَرَخَ: الزَّيْدُ عَنِ الخَمْرِ: شراب سے جھاگ دور ہونا۔

الصَّرْحُ: قعر۔ محل۔ ہر بلند عمارت۔ جِ صُرُوحٌ.

الصَّرْحَةُ: تحت زمین۔ صَرَخَةُ الدَّارِ: گھر کا گھن۔ جِ صَرَخَاتٌ.

الصَّرْحُ وَالصَّرَاحُ وَالصَّرَاحُ: الصَّرَاحُ: مکانات۔

خالص۔

الصَّرَاخَةُ وَالضَّرْوُخَةُ: خلوص ووضاحت۔

الصَّرَاجِيَّةُ: مِنَ الْخَمْرِ: خالص شراب۔ شراب کا برتن۔ کہا جاتا ہے "كَلْبُ صَرَاجِيَّةٍ" یعنی سفید جھوٹ۔

الصَّرَاجِي: واضح۔ ظاہر۔ يَوْمٌ مَصْرُوحٌ وَمَصْرُوحٌ: بے بادل کا دن۔

صَرَخَ: (ن) صَرَاحًا وَصَرَينَا: سخت چیخا۔ فریاد کرنا۔ الْقَوْمُ: فریادری کرنا۔ مدد کرنا۔

أَصْرَخَهُ: فریادری کرنا۔ مدد کرنا۔ تَصْرُخُ: جھکت۔ چیخنا۔

تَصَارَخَ وَاصْطَرَّخَ: الْقَوْمُ: چیخ و پکار مچانا اور مدد طلب کرنا۔ اصْطَرَّخَ: بمعنی صَرَخَ۔

الصَّارِخُ: قا۔ مرغ۔ الصَّارُوخُ: راکٹ (ایسا ہتھیار جو بم کو لے کر اڑتا ہے)۔

میزائل: اس کی تین اقسام ہوتی ہیں۔ (۱) اپنے آپ اپنے آلات کے زور پر مخصوص ہدف کی طرف چلتا ہے۔

(۲) راڈار کی طاقت سے خاص شعاعوں یا دھوئیں کے پیچھے اڑتا ہے۔ (۳) خاص قوت کے ذریعے جو اس کو ہدف مقرر کی طرف لے جاتا ہے۔

الصَّارِخَةُ: الصَّارِخُ: کامونٹ۔ فریاد رسی۔ دادخواہی۔ دادخواہی کی آواز۔ تم کہتے ہو "تَسْمِعُ صَارِخَةَ الْقَوْمِ" میں نے قوم کی دادخواہی کی آواز سنی۔

الصَّرَاخُ: بہت زیادہ چیخنے والا۔ مور۔ الصَّرِيخُ: بمس۔ فریادرس۔ دادخواہ۔ صَرَخًا۔

صِرْدٌ: (س) صِرْدًا: السَّهْمُ: تیر کا نشانہ پر نہ لگنا۔ نشانہ پر بیٹھنا۔ الرَّجُلُ: سردی برداشت کر لینا۔ سردی محسوس کرنا۔ السِّقَاءُ: جھاگ کا کگلے کگلے ہو کر نکلنا۔ کہا جاتا ہے "صِرْدٌ قَلْبِي عَنْهُ" یعنی میرا دل

اس سے ہٹ گیا۔

صِرْدٌ: (ن) صِرْدًا وَأَصِرْدٌ: الزامی السَّهْمُ: نشانہ لگانا۔ أَصِرْدُ السَّهْمُ: تیر کا نشانہ پر نہ لگنا۔

صِرْدٌ: الشُّيْ: کگلے کگلے کرنا۔ أَقْطَاءُ: کم دینا۔ الرَّجُلُ: سیرابی سے کم پلانا۔

الصِرْدُ: بمحض خالص۔ کہا جاتا ہے "سَقَاءُ الْخَمْرِ صِرْدًا" خالص شراب پلانی۔ أَجْبَهُ خُبًا صِرْدًا: خالص محبت کی۔ پہاڑ میں اونچی جگہ۔ بڑا لشکر۔ سردی۔ يَوْمٌ صِرْدٌ: ٹھنڈا دن۔ کہا جاتا ہے "مَاتَ صِرْدًا" شدت

سردی سے مر گیا۔ أَزْضٌ صِرْدٌ: سرد ملک۔ صِرْدٌ: اس کے خلاف أَزْضٌ جُرُومٌ: ہے۔ یعنی گرم ممالک۔

الصِرْدُ: بڑا لشکر۔ بھالے کی کیلیں جس میں تیز لگایا جائے۔

الصَارِدُ: قا۔ السَّهْمُ صَارِدٌ: نشانہ پر لگنے والا تیر۔

الصَّوَارِدُ: ٹھنڈی ہوائیں۔

الصِّرْدُ: ثورا (ایک پرندہ کا نام) صِرْدَانُ: سردان۔

الصِّرْدَانُ: زبان کے اندرونی حصہ کی دو رکیں۔

الصِّرْدُ: مِنَ الْخَيْلِ: وہ گھوڑا جس کی پیٹھ زخمی ہو۔ مِنَ الرَّجَالِ: سردی کو برداشت کرنے والا۔ سردی کو محسوس کرنے والا۔ صِرْدِي يَوْمٌ صِرْدٌ: سخت ٹھنڈا دن۔

الصِّرَادُ وَالصِّرِيدُ: بے پانی کا پتلا بادل۔ نَعْجَةٌ صِرِيدَةٌ: سردی زدہ۔ بھیڑ۔ صِرَائِدُ۔

الصِّصْرَادُ: بے درخت کی زمین۔ سردی برداشت کرنے والا یا نہ کرنے والا۔ السَّهْمُ مِصْرَادٌ: نشانہ پر لگنے والا تیر۔

السَّهْمُ مِصْرِدٌ: نشانہ پر لگنے والا تیر۔ المِصْطَرِدُ: سخت غمناک۔

صِرْصِرٌ: الصِّرْدُ أَوْ الصَّقْرُ: آواز کرنا۔ الرَّجُلُ: چیخنا۔ الشُّيْ: چیز کے منتشر

اطراف کو جمع کرنا۔

الصَّرْصِرُ: مِنَ الرِّيحِ: تیز چلنے والی یا زیادہ ٹھنڈی ہوا۔ مرغ۔ (الصَّرْصِرُ: صَرَاصِرٌ. الصَّرْصُورُ: صَرَاصِيرٌ: جھینگر۔ مجرا۔ الصَّرْصُورُ: شئی۔

الصَّرَاطُ: راستہ۔ صراط۔ الصَّرَاطُ: لمبی تیز تلوار۔

صَرَغَةٌ: (ف) صَرَغًا وَصَرَغًا وَمَصْرُغًا: بچھاڑ دینا۔ زمین پر گرا دینا۔ الشُّعْرُ: دو مضرعے بنانا۔ البَابُ: دو کواڑ لگانا۔

صُرْعٌ: مرگی ہونا۔ کہا جاتا ہے "صُرِعَ الشَّجَرُ" یعنی کاٹ دیا گیا اور ڈال دیا گیا۔ صَرَغَهُ: سخت بچھاڑنا۔ الشُّعْرُ: مضرعے لگانا۔ البَابُ: کواڑ لگانا۔

صَارَعَهُ صَرَاعًا وَمُصَارَعَةً: کشتی لڑنا۔

تَصَارَعُ وَاصْطَرَعُ: الرَّجُلَانِ: باہم کشتی لڑنا۔

انْصَرَعُ: بچھاڑا جانا۔

تَصَرَّعُ: لِصَاحِبِهِ: تواضع کرنا۔ عاجزی ظاہر کرنا۔ کہا جاتا ہے "مَازَلْتُ انْصَرَعُ لَهُ" وَإِلَيْهِ حَتَّى انْجَابَنِي" میں عاجزی ظاہر کرتا رہا یہاں تک کہ اس نے میری بات مان لی۔

الصَّرْعُ: بمس۔ مرگی۔ مِشَلٌ: مقابل۔ قسم کہا جاتا ہے "هُوَ صَرَغٌ كَثًّا" یعنی وہ فلاں کے مقابل ہے۔ صَارَعُ صَرُوعٌ: وَالصَّرْعَانُ: رات دن یا صبح شام۔ کہا جاتا ہے "اتَّقِنَا صَرَغِي النَّهَارِ" یعنی میں اس کے پاس صبح شام آیا اور "هُوَ ذُو صَرَغَيْنِ" وہ دو قسم یعنی رنگ کا ہے "قَسْرُ كُنْهَمُ صَرَغَيْنِ" یعنی میں نے ایسی حالت میں چھوڑا کہ وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتے رہتے ہیں۔

الصَّرْعُ: بمس۔ مِشَلٌ: قسم۔ رسی کی لڑی۔ صَارَعُ صَرُوعٌ: کشتی لڑنے والا۔ کہا جاتا ہے "هُمَا صَرَغَانُ" یعنی دونوں کشتی لڑنے والے ہیں۔

الصَّرْعَةُ: اسم مرءة - حالت - کہا جاتا ہے "هُوَ يَقَعْلُهُ عَلَى كُلِّ صَّرْعَةٍ" مراد یہ ہے کہ ہر حالت میں کرتا ہے۔

الصَّرْعَةُ: جس کو لوگ پچھاڑ دیں۔

الصَّرْعَةُ وَالصَّرَاعُ وَالصَّرَاعَةُ وَالصَّرِيعُ وَالصَّرُوعُ: لوگوں کو زیادہ پچھاڑنے والا۔

کہا جاتا ہے "قَوْمٌ صَّرْعَةٌ" یعنی ایسی قوم جو ہر کشتی لڑنے والے کو پچھاڑ دے۔

الصَّرْعَةُ: جلیم و برودار۔ اس لئے کہ اس کی بروداری

غضب و عسکر کو پچھاڑ دیتی ہے۔

الصَّرْعَةُ: جمع صُرُوع کی ہے۔

الصَّرَاعَةُ: کشتی کا لٹن۔

الصَّرِيعُ: زمین پر پچھاڑا ہوا۔ مجنون۔

صَّرْعَى: کہا جاتا ہے "بسات صَّرِيعٌ الْكُفَّاسُ" یعنی مجنون ہو کر رات گزاری۔

درخت کی جھلی ہوئی شاخ۔

صَّرْعٌ: پچھاڑنے کی جگہ۔

الصَّرَاعُ مِنَ النَّبَابِ: دروازے کا ایک

پت۔

صَّرْفَةٌ: (ض) صَّرَفًا: پھیرنا۔

صَّرَفًا: پھیرنا۔

صَّرَفًا: پھیرنا۔

صَّرَفًا: پھیرنا۔

صَّرَفًا: پھیرنا۔

صَّرَفًا: پھیرنا۔

صَّرَفًا: پھیرنا۔

صَّرَفًا: پھیرنا۔

صَّرَفًا: پھیرنا۔

صَّرَفًا: پھیرنا۔

صَّرَفًا: پھیرنا۔

جاری کر دینا۔

صَارَفَهُ: مبادلہ کرنا۔

صَارَفَهُ: مبادلہ کرنا۔

صَارَفَهُ: مبادلہ کرنا۔

صَارَفَهُ: مبادلہ کرنا۔

صَارَفَهُ: مبادلہ کرنا۔

صَارَفَهُ: مبادلہ کرنا۔

صَارَفَهُ: مبادلہ کرنا۔

صَارَفَهُ: مبادلہ کرنا۔

صَارَفَهُ: مبادلہ کرنا۔

صَارَفَهُ: مبادلہ کرنا۔

صَارَفَهُ: مبادلہ کرنا۔

صَارَفَهُ: مبادلہ کرنا۔

صَارَفَهُ: مبادلہ کرنا۔

صَارَفَهُ: مبادلہ کرنا۔

صَارَفَهُ: مبادلہ کرنا۔

صَارَفَهُ: مبادلہ کرنا۔

صَارَفَهُ: مبادلہ کرنا۔

صَارَفَهُ: مبادلہ کرنا۔

صَارَفَهُ: مبادلہ کرنا۔

صَارَفَهُ: مبادلہ کرنا۔

صَارَفَهُ: مبادلہ کرنا۔

صَارَفَهُ: مبادلہ کرنا۔

صَارَفَهُ: مبادلہ کرنا۔

صَارَفَهُ: مبادلہ کرنا۔

صَارَفَهُ: مبادلہ کرنا۔

النَّابِ: دروازے کی چڑچڑاہٹ۔

النَّابِ: دروازے کی چڑچڑاہٹ۔

النَّابِ: دروازے کی چڑچڑاہٹ۔

النَّابِ: دروازے کی چڑچڑاہٹ۔

النَّابِ: دروازے کی چڑچڑاہٹ۔

النَّابِ: دروازے کی چڑچڑاہٹ۔

النَّابِ: دروازے کی چڑچڑاہٹ۔

النَّابِ: دروازے کی چڑچڑاہٹ۔

النَّابِ: دروازے کی چڑچڑاہٹ۔

النَّابِ: دروازے کی چڑچڑاہٹ۔

النَّابِ: دروازے کی چڑچڑاہٹ۔

النَّابِ: دروازے کی چڑچڑاہٹ۔

النَّابِ: دروازے کی چڑچڑاہٹ۔

النَّابِ: دروازے کی چڑچڑاہٹ۔

النَّابِ: دروازے کی چڑچڑاہٹ۔

النَّابِ: دروازے کی چڑچڑاہٹ۔

النَّابِ: دروازے کی چڑچڑاہٹ۔

النَّابِ: دروازے کی چڑچڑاہٹ۔

النَّابِ: دروازے کی چڑچڑاہٹ۔

النَّابِ: دروازے کی چڑچڑاہٹ۔

النَّابِ: دروازے کی چڑچڑاہٹ۔

النَّابِ: دروازے کی چڑچڑاہٹ۔

النَّابِ: دروازے کی چڑچڑاہٹ۔

النَّابِ: دروازے کی چڑچڑاہٹ۔

النَّابِ: دروازے کی چڑچڑاہٹ۔

النَّابِ: دروازے کی چڑچڑاہٹ۔

الصَّرم: حرم فروش۔	صَرَى يَصْرِى صَرِيًا. الشَّى: دفع کرنا۔	المِصْطَح: بفتح وبلخ۔
الصرم: جماعت۔ مکانوں کا اجتماع۔ قسم۔	ہٹانا۔ دور کرنا۔ کہا جاتا ہے "صَرَى اللہ عنہ الشَّو" اللہ اس شرکو دور کرے۔ صَرَى بَوْلُهُ: پیشاب روک دینا۔	الأصْطَمَة: چیز کا بڑا حصہ۔ جمع ہونے کی جگہ۔ وسط۔
وَأَصَارِمٌ وَأَصَارِيمٌ وَصَرْمَانٌ. فُلَاتَا: جمع کرنا۔ بچانا۔ ہلاکت سے نجات دینا۔	صَعَبٌ: (ک) صُعُوبَةٌ. عَلَيْهِ الأَمْرُ: دشوار ہونا۔ صفت صَعَبٌ: مؤنث صَعْبَةٌ. ج صَعَاب.
الصرم: قسم۔ اونیوں کا گلہ۔ بادل کا ٹکڑا۔ الشَّى: بلند ہونا۔ نیچے ہونا..... القَوْمُ: آگے بڑھ جانا۔ پیچھے ہٹ جانا..... بَيْنَهُمْ: فیصلہ کرنا۔	أَصْعَبُ الأَمْرُ: مشکل ہونا..... الشَّى: مشکل پانا..... الخَمْلُ: سواری چھوڑ دینے کی وجہ سے سرکش ہو جانا۔
چاندی کا ٹکڑا۔ ج صرم۔	صَرَى يَصْرِى صَرَى. المَاءُ: دیر تک ٹھہرنے سے خشک ہونا..... السَّبِينُ: دودھ کا مزہ بدل جانا..... فَلَانٌ فِى يَدِ فَلَانٍ: کسی آدمی کا کسی کے ہاتھ میں قید ہونا..... الذَّمْعُ: آنسو کا بھرا آنا اور نہ بہنا۔	صَاعِبَةٌ مُصَاعِبَةٌ: سختی کرنا۔
الصارم: فا۔ بہادر۔ شیر۔ کائے والی تلوار۔ ج صوارم۔	صَرِيَتْ وَأَصْرِيَتْ. النَّاقَةُ: اُونٹنی کے تھن میں دودھ بھر جانا۔	صَعْبَةٌ: دشوار بنانا۔
الصَّرَامَةُ: مس۔ زخمل صَرَامَةٌ: مستقل بالرائے۔ دھن کا پکا۔	صَرَى تَصْرِيَةً. الشَّاةُ: دودھ زیادہ معلوم ہونے کے لئے تھن میں روک دینا۔	تَصْعَبُ: دشوار ہونا۔ مشکل ہونا۔ الأَمْرُ: دشوار بنانا۔
الصَّرُومُ: کائے والی تلوار۔ اچھی طرح کائے والا۔ الصَّرَامُ: جنگ۔ مصیبت۔	صَرِيَتْ وَأَصْرِيَتْ. النَّاقَةُ: اُونٹنی کے تھن میں دودھ بھر جانا۔	تَصَاعَبٌ: باہم سختی کرنا۔
زخمل صَرَامُ: کائے میں قوی مرد۔	صَرَى تَصْرِيَةً. الشَّاةُ: دودھ زیادہ معلوم ہونے کے لئے تھن میں روک دینا۔	إِسْتَصْعَبَ: مشکل ہونا۔ الشَّى: مشکل پانا۔
الصريم: کٹنا ہوا۔ رات یا اس کا ایک حصہ۔	الصَّرِي: باقی ماندہ..... (الصَّرِي): پانی جو دیر تک ٹھہرا ہے۔ کہا جاتا ہے "لَبَسَ صَرِي" دودھ جس کا مزہ بدل گیا ہو۔	الصَّعْبُ: مس۔ دشوار۔ مشکل۔ خوددار۔ شیر۔
صبح۔ گزری جو بکری کے بچے کے منہ میں باندھ دی جائے تاکہ دودھ نہ پئے۔ زمین جس کی بھیٹی کٹ چکی ہو۔ فلد جو کھیت سے کٹ چکا ہو۔ صَرِيْمًا اللَّيْلُ: رات کا اَوَّل و آخر حصہ۔ اَمْرٌ صَرِيْمٌ: لازمی امر۔	الصَّرِيَّة: پانی کا ڈنڈا۔ ج صوار۔	الصَّغُوبُ: دشوار۔ ج صُغْب.
زخمل صَرَامُ: کائے میں قوی مرد۔	الصَّرِيَّة: پانی کا ڈنڈا۔ ج صوار۔	الصَّغُوبُ: دشوار۔
الصريم: کٹنا ہوا۔ رات یا اس کا ایک حصہ۔	الصَّرِيَّة: پانی کا ڈنڈا۔ ج صوار۔	المَصَاعِبُ: سختیاں۔ مشقتیں۔
صبح۔ گزری جو بکری کے بچے کے منہ میں باندھ دی جائے تاکہ دودھ نہ پئے۔ زمین جس کی بھیٹی کٹ چکی ہو۔ فلد جو کھیت سے کٹ چکا ہو۔ صَرِيْمًا اللَّيْلُ: رات کا اَوَّل و آخر حصہ۔ اَمْرٌ صَرِيْمٌ: لازمی امر۔	الصَّرِيَّة: پانی کا ڈنڈا۔ ج صوار۔	المُصْعَبُ: ساٹھ۔ گھوڑا جو سواری چھوڑ دینے سے سرکش ہو۔ ج مَصَاعِب.
الصريم: کٹنا ہوا۔ رات یا اس کا ایک حصہ۔	الصَّرِيَّة: پانی کا ڈنڈا۔ ج صوار۔	وَمَصَاعِبُ: کہا جاتا ہے "جَمَالَ مَصَاعِبُ وَمَصَاعِبُ" سرکش اُونٹ۔
صبح۔ گزری جو بکری کے بچے کے منہ میں باندھ دی جائے تاکہ دودھ نہ پئے۔ زمین جس کی بھیٹی کٹ چکی ہو۔ فلد جو کھیت سے کٹ چکا ہو۔ صَرِيْمًا اللَّيْلُ: رات کا اَوَّل و آخر حصہ۔ اَمْرٌ صَرِيْمٌ: لازمی امر۔	الصَّرِيَّة: پانی کا ڈنڈا۔ ج صوار۔	صَفَّرَ: الخَمْلُ: پہاڑی پودے کھانا۔
الصريم: کٹنا ہوا۔ رات یا اس کا ایک حصہ۔	الصَّرِيَّة: پانی کا ڈنڈا۔ ج صوار۔	الرَّجُلُ الشَّى: مزین کرنا۔
صبح۔ گزری جو بکری کے بچے کے منہ میں باندھ دی جائے تاکہ دودھ نہ پئے۔ زمین جس کی بھیٹی کٹ چکی ہو۔ فلد جو کھیت سے کٹ چکا ہو۔ صَرِيْمًا اللَّيْلُ: رات کا اَوَّل و آخر حصہ۔ اَمْرٌ صَرِيْمٌ: لازمی امر۔	الصَّرِيَّة: پانی کا ڈنڈا۔ ج صوار۔	الصَّغْرُ: پہاڑی پودے۔
الصريم: کٹنا ہوا۔ رات یا اس کا ایک حصہ۔	الصَّرِيَّة: پانی کا ڈنڈا۔ ج صوار۔	الصَّغْرِي: چالاک۔ کریم۔ بہادر۔
صبح۔ گزری جو بکری کے بچے کے منہ میں باندھ دی جائے تاکہ دودھ نہ پئے۔ زمین جس کی بھیٹی کٹ چکی ہو۔ فلد جو کھیت سے کٹ چکا ہو۔ صَرِيْمًا اللَّيْلُ: رات کا اَوَّل و آخر حصہ۔ اَمْرٌ صَرِيْمٌ: لازمی امر۔	الصَّرِيَّة: پانی کا ڈنڈا۔ ج صوار۔	صَعِدَ (س) صُعُودًا وَصَعْدًا وَصَعْدًا فِى السَّلْمِ: سیرگی پر چڑھنا..... بہ: چڑھنا..... (صُعُودًا) المَكَّانُ: نیچے جھانکتے ہوئے چڑھنا۔
الصريم: کٹنا ہوا۔ رات یا اس کا ایک حصہ۔	الصَّرِيَّة: پانی کا ڈنڈا۔ ج صوار۔	صَعْدَ: فِى وَعْلى العَجَلِ: پہاڑ پر چڑھنا..... فِى الوَادِي: وادی میں اترنا۔
صبح۔ گزری جو بکری کے بچے کے منہ میں باندھ دی جائے تاکہ دودھ نہ پئے۔ زمین جس کی بھیٹی کٹ چکی ہو۔ فلد جو کھیت سے کٹ چکا ہو۔ صَرِيْمًا اللَّيْلُ: رات کا اَوَّل و آخر حصہ۔ اَمْرٌ صَرِيْمٌ: لازمی امر۔	الصَّرِيَّة: پانی کا ڈنڈا۔ ج صوار۔	صَعْدَ فِىهِ النِّظَرُ: اوپر سے نیچے غور سے دیکھنا۔
الصريم: کٹنا ہوا۔ رات یا اس کا ایک حصہ۔	الصَّرِيَّة: پانی کا ڈنڈا۔ ج صوار۔	أَصْعَدَ: مَلَكًا كَوَجَانًا..... فِى الأَرْضِ: اونچی

زمین کی طرف جانا..... فِی الْوَادِیِ : وادی میں اترنا..... فِی الْعَدُوِّ : تیز دوڑنا..... ہ : چڑھانا۔ اَصْعَدَتِ السَّفِیْنَةَ : بادیاں کھینچ دینے سے ہوا کا کشتی کو لے اڑنا۔

تَصَعَّدَ وَتَصَاعَدَ : چڑھنا۔ تَصَعَّدَهُ وَتَصَاعَدَهُ الْأَمْرُ : دشوار و مشکل ہونا۔ تَصَعَّدَ النَّفْسُ : مشکل سے سانس نکلنا۔ اِصْطَعَدَ : چڑھنا۔

الصَّاعِدُ : فَا۔ کہا جاتا ہے "تَلَعَّ كَذَا فَصَاعِدًا" یعنی اس سے اوپر اور یہ باعتبار حالت کے منسوب ہوا کرتا ہے۔ الصَّعَادُ : بہت چڑھنے والا۔

الصُّعْدُ : بلندی۔ کہا جاتا ہے "هَبَطَ مِنَ صُعْدٍ" بلندی سے اترنا "هَذَا النَّبَاتُ يَنْمُو صُعْدًا" یہ پودہ بلندی میں بڑھتا ہے۔ ایک درخت ہے جس سے تار کو ل پھلایا جاتا ہے۔

الصُّعْدُ : مشقت۔ عَذَابٌ صُعْدٌ : سخت عذاب۔

الصُّعِيدُ : مٹی۔ قیر۔ راستہ۔ زمین کا بلند حصہ۔ کہا جاتا ہے "صَارَتِ الْحَدِيقَةُ صُعِيدًا" یعنی باغ ہموار زمین ہو گیا جس میں درخت وغیرہ نہیں۔ جِ صُعْدٍ وَصُعْدَاتٍ وَصُعْدَانٍ : مصر میں چند شہروں کا نام صُعِيدُ ہے۔

الصُّعُودُ : چڑھائی۔ حَمِيسُ الصُّعُودِ : جمعرات کا دن جس میں سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام آسمان پر تشریف لے گئے۔

الصُّعُودُ : چڑھائی۔ چڑھتا ہوا راستہ۔ دُشَوَارِزُ ارْكَهَائِي : جِ صُعْدٍ وَأَصْعَدَانَةٌ وَصَعَانِدٌ کہا جاتا ہے "لَا رُهْقَنُكُ صُعُودًا" یعنی میں تم کو مصیبت میں پھنساؤں گا۔

الصُّعْدَاءُ : غم یا تنگن کی وجہ سے لمبی سانس۔ الصُّعْدَاءُ : مشقت۔

الصُّعْدَةُ : ام مرتہ۔ سیدھا تیزہ۔ جِ صِعَادٍ وَصُعْدَاتٍ

الصُّعُودَاءُ : دُشَوَارِزُ ارْكَهَائِي۔ المُّصْعَدُ : مِنَ الْأَشْرَبَةِ : آگ سے گرم کیا ہوا۔

الْمُصْعَدُ : جامد جسم کا دھواں کی شکل میں تبدیل ہونا۔ بغیر پھیلنے کے۔ المُّصْعَدُ : بجلی یا گیس کے بند کرنے کے مقام۔

المُّصْعَدُ : اُدپر لے جانے کے لئے خود کار زین۔

جَبَلٌ مُصْعَدٌ : بلند پہاڑ۔ المِصْعَادُ : درخت خرم پرا چڑھنے کی ری۔

صَعْرٌ : (س) صَعْرًا. وَجْهَةٌ : تیزھا ہونا۔ ایک جانب کو جھکنا۔ صَفْتٌ أَصْعَرُ : مؤنث صَعْرَاءُ جِ صُعُورٌ..... رَأْسُهُ : سر کا چھوٹا ہونا۔ صَعْرٌ وَصَاعِرٌ : تکبیر و غرور کی بنا پر رخسارہ تیزھا کرنا اور کبھی خلقتنا ہوتا ہے۔

تَصَعَّرَ وَتَصَاعَرَ : تکبیر کی وجہ سے رخسارہ تیزھا کرنا۔

صَعْرَرُ : الشَّيْءُ : گھمانا۔ تَصَعَّرُ : گھومنا۔

إِصْعَرَرُ وَاصْعَرَرُ : بیچ و تاب کھانا۔ إِصْعَرَّتْ : الْإِبْلُ : تیز دوڑنا۔

الصُّعَارُ : مغرور و تکبر۔ الصُّعُورُ وَالصُّعُورُورُ : درخت کا پانی جو گوئد کی طرح جم جائے۔ جِ صَعَارٌ يُرُ.

الصُّعُورُورَةُ : گہری یا کی گولی۔ صَعُوعٌ : الْقَوْمُ : متفرق کر دینا..... الشَّيْءُ : حرکت دینا۔ مِنْ فُلَانٍ : خوف کرنا۔ رَأْسُهُ بِالذَّهْنِ : سر کو تیل سے چکنا کرنا۔ تَصْعُوعٌ : متحرک ہونا متفرق ہونا۔ السَّرْجُلُ : بزدل ہونا۔ ذَلِيلٌ : عاجزی کرنا۔ کہا جاتا ہے "تَصْعُوعٌ بِهِمُ الذَّهْرُ" یعنی زمانے نے ان کو پراگندہ کر دیا۔

تَصْعُوعَتْ صُفُوفُهُمْ : یعنی ان کی صفیں منتشر ہو گئیں۔ الصُّفُوعُ : متفرق (.....) وَالصُّفُوعُ : ایک پرندہ ہے جس کے بدن پر نقطے ہوتے

ہیں۔ جِ صَعَايِعُ : کہا جاتا ہے "ذَهَبُوا صَعَايِعُ" وہ لوگ متفرق ہو کر چلے گئے۔ صُفَيْفٌ صَعْفًا : کچی لائق ہونا۔ صفت مَضُوفٌ.

أَصْعَفُ : السَّرُوعُ : بھتیگی کے خوشوں کا اس لائق ہونا کر لہ کر اسے کھایا جاسکے۔ الصُّعْفَةُ : کچی۔ سردی یا گھبراہٹ کی وجہ سے۔

الصُّعْفُوقُ وَالصُّعْفُوقُ وَالصُّعْفَقِيُّ : وہ شخص جو بغیر سرمایہ کے بازار میں تجارت کے لئے جائے اور جب کوئی شخص کچھ خریدے تو اس کے ساتھ شریک ہو جائے۔ کمزور جس کے پاس ہتھیار بھی نہ ہو اور شجاعت بھی نہ ہو۔

الصُّعْفُوقُ : کمینہ۔ جِ صَعْفَائِقُ وَصَعْفَقَةٌ. صَعْفَتٌ (ف) صَاعِقَةٌ : السَّمَاءُ الْقَوْمُ : بجلی گرائنا۔ صَعْفَتُهُمُ الصَّاعِقَةُ : بجلی گرائنا۔

صَعِقٌ : (س) صَعَقًا. الرَّغْدُ : زور سے بادل گرنا..... السَّرِيحَةُ : کنوئیں کا گر جانا (.....) وَصَيْقٌ صَعْفًا وَصَعْفًا وَصَعْفَةً وَتَصَعَقًا : گرج سے غشی طاری ہو جانا۔ صفت صَعِقٌ : مرنا۔ صَعِقَ الْفُورُ صَعَقًا : تیل کا سخت ڈکارنا۔

أَصْعَقَتَهُ السَّمَاءُ : بجلی گرائنا۔ أَصْعَقَهُ قَتْلٌ : الصُّعِقُ : مصل۔ جِج۔ موت۔ الصُّعَاعُ : بادل کی گرج۔

الصَّاعِقَةُ : مصل۔ آگ ہے جو بہت ہی کڑک اور گرج کے ساتھ آسمان سے گرتی ہے۔ موت۔ ہر مہلک عذاب۔ عذاب کی جِج۔ جِ صَوَائِقُ.

الْمُصْعُوقُ : غشی والا۔ اچانک مرنے والا۔ الصُّعُورُ : مچھلی کے انڈے۔

صَعَلٌ : (س) صَعْلًا وَأَصْعَالٌ : چھوٹا سر اور پتلی گردن والا ہونا۔ صفت أَصْعَلُ مَوْنَتٌ صَعْلًا جِ صَعْلٌ.

الصُّعْلُ : چھوٹے سرو والا (آدی یا شتر مرغ یا کھجور) لمبا۔ گدھا جس کے بال گر گئے

اور حرکت نہ دینا..... الاِبِلُ قَوَائِمُهَا :
اُونٹوں کا اپنی ٹانگوں کو ایک صف میں رکھنا
..... اللِّحْمُ : طول میں کاٹنا..... السَّرَجُ :

گدڑی بنانا۔

صَافٌ مُصَافَةٌ. القَوْمُ فِي الْقِتَالِ : میدان
جنگ میں صف بستہ کھڑا ہونا..... فَلَانٌ فَلَانًا
: کسی کے چبوترے کے مقابل چبوترہ بنانا۔
بنانے والا مصافھی کہلاتا ہے۔

أَصْفٌ. السَّرَجُ : زرین کے لئے گدڑی بنانا۔

تَصَافٌ. القَوْمُ : صفوں میں اکٹھا ہونا۔

إِصْطَفَ. القَوْمُ : صفوں میں کھڑا ہونا۔

الصَّفُ : سیدھی قطار۔ کلاس۔ صف بستہ
قوم۔ جِ صُفُوفٌ.

الصَّفَفُ : زرہ کے نیچے کا لباس۔

الصُّفَّةُ : پتیلی پر رکھے ہوئے دانے۔ صُفَّةٌ

السَّرَجُ او السَّرْحِلُ : زرین یا کجاوہ کی گدڑی۔

صُفَّةُ الْمَسْجِدِ : مسجد کا سایہ دار چبوترہ۔

الصُّفَّةُ : گرمی کے لئے مکان جس کی چھت

گھاس پھوس سے بنی ہوئی ہو۔ صُفَّةٌ مِنْ

الدَّهْرِ : زمانے کی ایک مدت۔ جِ صُفْفٌ

وَصُفَاتٌ وَصِيفٌ.

الصَّافُ : قاف۔ الصَّافَةُ مِنَ الْإِبِلِ : جو اپنی

ٹانگوں کو ایک صف میں کئے ہوئے ہوں۔ جِ

صَافَاتٌ وَصَوَاتٌ. الصَّافَاتُ : فرشتے۔

نَاقَةٌ صُفُوفٌ : بہت دودھ دینے والی اونٹنی

جو کثرت دودھ کی وجہ سے برتنوں کی صف لگایا

دے اور یا جو اپنی اگلی ٹانگوں کو دودھ دوہنے

کے وقت ایک صف میں کر لے۔

الصَّيْفُ : خشک ہونے کے لئے صوبپ میں

یا بھوننے کے لئے آگ پر صف لگائی ہوئی

چیز۔

الصُّفُوفُ : ایک درخت جو کہ عام طور پر

باسکٹ وغیرہ بنانے کا کام آتا ہے۔

الصِّفُّ : صف باندھنے کی جگہ۔ میدان

جنگ۔ مطلقاً کھڑے ہونے کی جگہ۔ جِ

مَصَافٌ.

تَصَفَّتْ. الرَّجُلُ : قوی و مضبوط ہونا۔

کے چھوٹے چھوٹے۔ کہا جاتا ہے "أَنَا مِنْ
الصِّغْرَةِ" یعنی میں چھوٹے چھوٹے لوگوں
میں سے ہوں۔

الصُّغَارُ وَالصُّغْرُ : ذلت۔ ظلم۔

الصِّغَارَةُ : چھوٹا پن اور بعض کہتے ہیں کہ

صغارت : مرتبہ میں چھوٹا ہونا اور صغیر

جسامت میں چھوٹا ہونا۔

الصُّغَارُ وَالصُّغْرَانُ : چھوٹا۔

الصَّاعِرُ : ذلیل۔ بے قدر۔ جو ذلت اور ظلم

پر راضی رہے۔ جِ صِغْرَةٌ وَصَاغِرُونَ.

الصِّغِيرُ : چھوٹا (مرتبہ یا جسامت میں) جِ

صِغَارٌ وَصِغْرَاءُ.

الْأَصْغَرُ : اسم تفضیل۔ جِ أَصَاغِرُ أَصَاغِرَةٌ

وَأَصْغِرُونَ : مؤنث صغری جِ صُغْرٌ.

الْأَصْغْرَانُ : دل و زبان اور اسی سے مثل ہے

"الْمَرْءُ بِنَا صِغْرِيهِ" آدمی کی وقعت دو چھوٹی

چھوٹی چیزوں یعنی دل و زبان سے وابستہ

ہے۔

صَغَا يَصْغُو وَيَصْغِي صُغْوًا وَصِغِي يَصْغِي

صَغِيًّا وَصِغِيًّا. إِلَيْهِ : جملکنا..... النَّجْوَمُ او

الشَّمْسُ : ڈوبنے لگنا۔ صفت صُغْوَاءُ اور جمع

صَوَاغٍ.

أَصْغَى إِصْغَاءً. إِلَى حَدِيثِهِ : کان لگنا

..... إِلَيْهِ : سننے کے لئے جملکنا..... الْإِنَاءُ :

جھکانا..... الشَّيْءُ : کم کرنا۔ گھٹانا۔ تم کہو گئے

"أَصْغَى حَقًّا" جبکہ حق گھٹا دیا۔

الصُّغُو : کنوئیں کا کنارہ۔ ڈول کا کنارہ جو

دوہرا ہو۔ صُغُو الكَفِّ او المَعْرِفَةِ : پتیلی یا

چھپکا گڑھا۔ جِ أَصْغَاءُ.

صَاغِيَةٌ الرَّجُلُ : ماتحت لوگ۔ کہتے ہیں

"أَكْرَمُوا الرَّجُلَ فِي صَاغِيَتِهِ" یعنی اس

کے ماتحت لوگوں کے سامنے آدمی کا اکرام

کرو۔

صَفٌّ : (ن) صَفًّا وَصَفَّتْ. الشَّيْءُ :

صف بنانا..... القَوْمُ : میدان جنگ میں

صف بندی کرنا..... صَفَّ القَوْمُ : صف بستہ

کھڑا ہونا..... الطَّائِرُ بِنَجَاحِهِ : پر پھیلانا

ہوں۔
صَفَلَكُ صَفَلَكَةٌ : محتاج بنانا۔ دہلا کرنا۔
تَصَفَّلَكَ : فقیر و محتاج ہونا۔

الصُّفْلُوكُ : فقیر و محتاج۔ کمزور۔ جِ

صَفَالِكٌ وَصَفَالِيكٌ. صَفَالِيكٌ

العَرَبُ : عرب کے چوراہے اور قراء۔

أَصْعَنَ الرَّجُلُ : چھوٹے سرو والا اور کم عقل

ہونا۔

إِصْعَنَ الشَّيْءُ : باریک اور نازک ہونا۔

صَعَا يَصْعُو صُغْوًا : باریک اور چھوٹا ہونا۔

الصُّفُو : چھوٹے چڑے۔ واحد

(صُغْوَةٌ صُغْوَاتٌ : ممولاً۔ جِ صِغَاءٌ

وَأَصْعَاءٌ نَاقَةٌ صُغْوَةٌ : چھوٹے سروالی

اونٹنی۔

الصُّغْبُ : جوں کے اٹلے۔

صِغْرٌ (س) وَصُغْرٌ (ک) صِغْرًا

وَصِغَارَةٌ وَصِغْرًا وَصُغْرَانًا : چھوٹا ہونا۔

صُغْرٌ (ک) صِغْرًا وَصُغْرًا وَصِغَارًا او

صِغَارَةً وَصُغْرَانًا : ذلیل ہونا۔ صِغْرَتٌ

الشَّمْسُ : غروب کی طرف مائل ہونا۔

صُغْرٌ (ن) او صِغْرٌ (س) صِغْرًا. القَوْمُ :

قوم میں چھوٹا ہونا۔

صِغْرٌ وَأَصْغَرَةٌ : چھوٹا بنانا۔ ذلیل کرنا۔ کہا

جاتا ہے "صِغْرَةٌ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ" یعنی

لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کیا۔ "أَصْغَرْتُ

الْأَرْضَ" زمین چھوٹے پودے والی ہوئی۔

أَصْغَرَ القَوْمُ : چھوٹے چھوٹے بچے پیدا

کرنا۔

تَصَاعَرَ الرَّجُلُ : حقیر ہونا۔ کہا جاتا ہے

"تَصَاعَرْتُ إِلَيْهِ نَفْسُهُ" یعنی اس کا نفس حقیر

و بے قدر ہو گیا۔

إِسْتَصْفَرَهُ : چھوٹا پانا۔ چھوٹا سمجھنا..... فَلَانٌ

: چھوٹا طلب کرنا۔

الصِّغْرَةُ : اولاد میں سب سے چھوٹا۔ قوم میں

سب سے چھوٹا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ صِغْرَةُ

أَبُوئِيهِ او صِغْرَةُ أَوْلَادِ أَبِيئِيهِ" وہ اپنے ماں

باپ کی اولاد میں سب سے چھوٹا ہے۔ قوم

الصِفْتِ وَالصِفْتَانِ وَالصِفْتَانِ : بھاری بھر کم جسم والا۔ قوی تخت اندام۔

صَفَحَ : (ف) صَفَحًا. عَنْهُ : روگردانی کرنا۔ اعراض کرنا۔ چھوڑ دینا۔ گناہ معاف کرنا۔ صَفَحَ السَّائِلَ عَنْ حَاجَتِهِ : حاجت پوری نہ کرنا۔ تم کہتے ہو "أَتَيْتُهُ فِي حَاجَتِهِ فَصَفَحْتَنِي" میں اس کے پاس ایک حاجت سے آیا اس نے حاجت پوری نہیں کی..... ہاں السِّيفِ : تلوار کی چوڑائی کی طرف سے مارنا..... الشِّيءُ : چوڑا کرنا..... النَّاسُ : لوگوں میں مقابلہ کر کے ان کی حالت دیکھنا..... وَرَقَ الْمَضْحَفِ : ایک ایک ورق کو پیش کرنا..... فِي الْأَمْرِ : غور کرنا۔

صَفَحَتْ (ف) صَفُوحًا. النَّاقَةُ وَغَيْرُهَا : دودھ کا ختم ہو جانا۔ صفت صافیح۔

صَفَحَ الشِّيءُ : لمبا چوڑا کرنا..... الْمَكَانُ : مکان میں چوڑے پتھروں کا فرش لگانا۔

صَفَحَ بِيَدَيْهِ : تالی بجانا۔

أَصْفَحَ السَّائِلَ : بحروم واپس کر دینا..... الشِّيءُ : التناہ پلٹنا۔

صَافِحَةٌ مَصَافِحَةٌ وَصِافِحًا : ہاتھ ملانا۔

تَصَفَّحَ الشِّيءُ : تامل کرنا۔ دیر تک دیکھنا..... الْقَوْمُ : چہروں کو غور سے دیکھنا تاکہ حالات کا اندازہ ہو سکے۔ حالات کا جائزہ لینا۔

تَصَافَحَ الْقَوْمُ : یا یکدگر مصافحہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "تَصَافَحَتِ الْإِجْفَانُ" یعنی پلک لگ گئی۔

اسْتَصَفَحَهُ الذَّنْبُ : گناہ کی معافی چاہنا۔

الصَّفْحُ : جانب..... مِنَ الْوَجْهِ : رخسارہ..... مِنَ الْإِنْسَانِ : پہلو..... مِنَ السِّيفِ : چوڑا پہلو۔ ج صَفَاح : کہا جاتا ہے "ضَرْبٌ عَنْهُ صَفْحًا" یعنی اعراض کیا۔

الصَّفْحَةُ مِنَ الشِّيءِ : جانب۔ چہرہ..... مِنَ الْكِتَابِ : ورق کی ایک جانب۔ صَفْحَةٌ الرَّجُلِ : سینہ کی چوڑائی۔ ج صَفْحَاتِ :

الصَّفْحَانِ وَالصَّفْحَتَانِ : رخسارے۔

الصَّفْحُ : چہرے اور تلوار کی چوڑائی۔

الصَّفَاخُ وَالصَّفْحُ : رخسارہ یا پیشانی کی بہت زیادہ چوڑائی۔ کہا جاتا ہے "لَقِيْتُهُ صَفَاخًا" وہ اس سے اچانک ملا۔

الصَّفِيحُ : آسمان۔ ہر چوڑی چیز کا ظاہر۔

الصَّفِيحَةُ : چوڑی تلوار۔ چوڑا پتھر۔ ہر چوڑی چیز کا ظاہر۔ صَفِيحَةُ الْوَجْهِ : چہرے کی کھال۔ ج صَفِيحٌ وَصَفَايِحُ. الصَّفَايِحُ : سر کی چار ہڈیاں۔ دروازے کے تختے۔

الصَّفَاخُ : پتلے چوڑے پتھر۔ اُونٹ جن کے کوہاں بڑے ہوں۔ ج صَفَاخَاتِ صَفَايِحِ.

الصَّفَاخُ وَالصَّفُوحُ : معاف کرنے والا۔

الصَّفُوحُ : بمعنی کریم۔

المُصَفِّحُ : چوڑا۔ اُلٹا جھکا ہوا..... مِنَ الْوُجُوهِ : ملائم و خوبصورت..... مِنَ الْأَنْوْفِ : ستواں ناک..... مِنَ الرَّؤُوسِ : کپٹیوں کی

طرف۔ ٹنگ اور پیشانی اور گدی کے درمیان طویل..... مِنَ الْقُلُوبِ : جس میں ایمان و نفاق دونوں جمع ہوں..... مِنَ النَّاسِ : جو کافر سے کافر نہ طریقہ سے ملے اور مومن سے مومن نہ طریقے سے۔

المُصَفِّحُ : چوڑا۔ جس پر چوڑے پتھر لگے ہوئے ہوں۔ اَنْفٌ مُصَفِّحٌ : ستواں ناک۔

المُصَفِّحَةُ وَالْمُصَفِّحَةُ : تلوار۔ ج مُصَفِّحَاتٌ وَمُصَفِّحَاتٌ.

صَفْدَةٌ : (ض) صَفْدًا وَصَفُودًا وَصَفْدَةٌ : قید کرنا۔ جھکڑی لگانا۔

أَصْفَدَهُ : قید کرنا..... مَالًا : دینا۔

الصَّفْدُ : بندش۔ بندھن۔ ج أَصْفَادٌ : کہا جاتا ہے "الصَّفْدُ صَفْدٌ" یعنی داد و دہش قید ہے۔

الصَّفَادُ : ہر وہ چیز جس سے قیدی کو باندھا جائے۔ بندش۔

صَفْرٌ : (ض) صَفِيرًا : ہونٹوں سے سیٹی بجانا۔ صَفْرٌ بِالْقُرْسِ عِنْدَ وَرُودِهِ :

گھوڑے کو پانی پلانے کے لئے بلانا۔

صَفْرٌ صَفْرًا : پیٹ میں صفا رجم ہونا۔ صفت مَصْفُورٌ (دیکھئے صَفَارٌ)

صَفْرٌ : (س) صَفْرًا وَصَفُورًا وَصَفُورَةٌ الْإِنَاءُ : برتن کا خالی ہونا۔ کہا جاتا ہے "صَفِرَ وَطَانُهُ أَوْ إِنَاءُهُ" یعنی ہلاک ہو گیا۔

صَفْرٌ الشِّيءُ : زرد کرنا..... الثُّوبُ : زرد رنگنا..... الثِّيْتُ : خالی کرنا..... لِلذَّابِئَةِ : ہونٹوں سے جانور کے لئے سیٹی بجانا.....

بِالذَّابِئَةِ : جانور کو پانی پینے کے لئے بلانا۔

أَصْفَرَ بَحْمَاجٌ : ہونا..... الْإِنَاءُ : خالی ہونا..... الثِّيْتُ : خالی کرنا۔

إِصْفَرٌ إِصْفَارٌ : زرد رنگ ہونا۔

الصَّفْرُ وَالصَّفْرُ وَالصَّفْرُ : خالی۔ کہا جاتا ہے "ثِيْتُ صَفْرٍ مِنَ الْمَتَاعِ" گھر سامان سے خالی ہے "هُوَ صَفْرٌ الْيَدُ" وہ خالی ہاتھ ہے۔

الصَّفْرُ : سونا۔ پتیل۔

الصَّفْرُ : زریو۔ اہل حساب کا وہ نقطہ جو عدد نہ ہونے پر دلالت کرے۔

صَفْرٌ : قمری مہینوں میں دوسرا مہینہ۔ کبھی غیر منصرف بھی پڑھا جاتا ہے۔ ج أَصْفَارٌ.

الصَّفْرَانُ : عربی سال کے دو مہینے جس میں سے پہلے کا نام ظہور اسلام کے بعد محرم ہو گیا اور دوسرا نام اپنی حالت پر باقی رہا۔

الصَّفْرُ : مہم۔ یرقان۔ جھوک۔ کہا جاتا ہے "عَضَّ عَلَى شَرِّسُوفِهِ الصَّفْرُ" یعنی جھوکا ہوا۔ عقل کہا جاتا ہے "لَا يَلْسَطُ هَذَا بِصَفْرِي" یہ میری عقل میں نہیں آتا۔ میرے دل میں چپکنا۔

الصَّفْرُ : خالی۔ ج أَصْفَارٌ : کہا جاتا ہے "إِنَاءٌ أَصْفَارٌ" خالی برتن۔

الصَّفِيرَاءُ : ایک درخت جس کے پتے سبزی زردی مائل ہوتے ہیں۔

الْبَابِيَّةُ : زریب وزینت والا ایک درخت جس کے پتے پر نما ہوتے ہیں اور سفید رنگ کے پھول ہوتے ہیں۔

الْبَابِيَّةُ : زریب وزینت والا ایک درخت جس کے پتے پر نما ہوتے ہیں اور سفید رنگ کے پھول ہوتے ہیں۔

الصفرة: ایک مرتبہ بھوکا ہونا۔ الصفرة: زردی۔ سیاہی۔ مصفار: ایک قسم کی مچھلی۔ الصفرة: کثیر العیال محتاج۔ صفاریت:	الصفرد: ایک پرندہ جس کی بزدلی کی مثال دی جاتی ہے۔ صفصف: الرجل: بیابان میں اکیلا چلنا۔ الصفور: چڑیا کا چھہانا۔ الصفف: چڑیا۔ الصففة: بیابان۔ الصففا: بیدار بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیدار کی ایک قسم ہے۔ واحد صفافة۔ صفعة: (ف) صفعا: تھپڑ مارنا۔ صافعة و تصافعا: ایک دوسرے کو تھپڑ مارنا۔ الصفعان و المصفعانی: جس پر کثرت سے تھپڑ لگائے جائیں۔ صفقة: (ن ض) صققا: تھپکی لگانا۔ تالی بجانا۔ صقق السباب: دروازہ بند کرنا۔ کھولنا۔ (ضد) الرجل عن مرادہ: کسی کو اس کے ارادہ سے باز رکھنا۔ الطائر بجناحیه: پرندہ کا بازوؤں کو پھڑ پھڑانا۔ غینہ: آنکھ بند کر دینا۔ العوود: برہم کے تاروں کو حرکت دینا۔ القدح: پیالہ بھرنا۔ صفائی کے لئے ایک برتن سے دوسرے برتن میں ترن کرنا۔ لہ البایع و صقق علی یدہ و صقق یدہ بالبایعة: سودا کرنے کے لئے ہاتھ پر ہاتھ مارنا۔ الرجل: جانا۔ بالسیف: تلوار مارنا۔ الریح الأشجار: ہوا کا درختوں کو حرکت دینا۔ کہا جاتا ہے "صقق علینا صافقة" یعنی ہمارے پاس ایک جماعت آئی۔ صقق: (ک) صفاقا: الرجل: بے حیاء ہونا۔ الفوب: کپڑے کا گف ہونا۔ أصفقة: باز رکھنا۔ الصفق الباب و القدح و الشراب: بمخنی صقق..... الخوض: حوض میں پانی جمع کرنا۔ للقوم: اتنا کھانا لانا جس سے آسودگی ہو جائے۔ الفوب: کپڑے کو گف بنانا۔ کہا جاتا ہے "أصفقوا علی قول واحد" یعنی ایک قول پر سب کا	الصفرة: ایک مرتبہ بھوکا ہونا۔ الصفرة: زردی۔ سیاہی۔ مصفار: ایک قسم کی مچھلی۔ الصفرة: کثیر العیال محتاج۔ صفاریت: الصفری و الصفریة: فعل خریف کی بارش۔ ایک پودہ جو فصل خریف میں ہوتا ہے۔ الصفار: آواز۔ زرد رنگ کا پانی جو پیٹ میں جمع ہو جاتا ہے۔ کپتوا۔ پیٹ کے کپڑے۔ زردی جو رنگ پر غالب ہو۔ والصفار: جانوروں کے دانتوں میں گھاس کا بقیہ۔ الصفارة: مرجھایا ہوا پودہ۔ الصفیر: ہر آواز جو لمبی ہو اور حروف سے خالی ہو۔ حروف الصفیر: زامی محمد سین و صاد مہملہ ہیں۔ الصفار: بھیرا۔ الصفارة: سیٹی۔ مقصد۔ الصفاریة: زرد پروں کا پرندہ۔ الصفار: سیٹی بجانے والا چور۔ ایک پرندہ ہے جو رات میں آواز کرتا رہتا ہے اس خوف سے کہ کہیں سوئے میں پکڑ نہ لیا جائے۔ مثال ہے "هو اجین من صافر" وہ صافر پرندہ سے زیادہ بزدل ہے۔ ہر ایک پرندہ جو شکار نہ کرے ہر ایک آواز کرنے والا۔ پرندہ۔ کہا جاتا ہے "تسا بالدار صافر" گھر میں کوئی آواز کرنے والا نہیں یعنی کوئی نہیں۔ الاصفر: زرد رنگ والا۔ مؤنث صفرآء صفر۔ الصفیر: دنا تیر۔ الاصفران: زعفران اور سونا۔ الصفراء: مؤنث اصفر: سونا۔ پتا۔ ٹڈی جو اٹھ دے دے چکی ہو۔ ایک قسم کا پودہ جس کے پتے خس کے مانند ہوتے ہیں۔ المصفر: نا محتاج۔ المصفور و المصفر: بھوکا۔
--	--	---

الصَّفْو: مصل۔ خالص محبت (..... الصَّفْوَة
والصَّفْوَة وَالصَّفْوَة) مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: خالص
اور عمدہ۔

الصَّفِي: صاف ستھرا۔ يَوْمٌ صَافٍ: بے ابر
وباد کا دن۔ بِلَاءَةٌ صَافٍ: بغیر کوڑا کرکٹ
کی گھاس۔

الصَّفِيَّة: زمین جس کے باشندے چلے گئے
ہوں یا مر گئے ہوں اور کوئی اس میں وارث نہ
ہو صَوَافٍ۔

الصَّفْوَة: خالص دوسٹ۔ طَرَزُ صَفَائِي
الصَّفْوَة مِنَ الْمَاءِ وَنَحْوَهُ: تھوڑا سا پانی
وغیرہ۔

الصَّفَاءُ: جمع صَفَاءَةٍ: کی بھٹی پتھر اور لقب
ہے بطرس کا (کلمہ سریانی ہے)
الصَّفَاءَةُ: جمع صَفَوَاتٍ: جمع صَفَاءِ
وَصَفِيٍّ وَصَفِيٍّ۔

الصَّفْوَانَةُ: جمع صَفْوَانٍ وَصَفْوَانٍ الصَّفْوَانُ
: ٹھوس بڑا پتھر۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ لَا تَسْنَدِي
صَفَاتِهِ" مراد یہ ہے کہ خیل سے "فَلَانٌ لَا
تَفْرَعُ لَهُ صَفَاءَةٌ" یعنی کوئی اس کو تکلیف نہیں
پہنچا سکتا۔

الصَّفْوَانُ: چکنا پتھر۔ يَوْمٌ صَفْوَانٌ: صاف
دن۔

الصَّفِي: مجلس دوست۔ جمع أَصْفِيَاءَ:
مؤنث صَفِيَّةٌ: ہر چیز کا خالص حصہ۔
الصَّفِي وَالصَّفِيَّة: مال غنیمت کا وہ حصہ جو
سردار اپنے لئے خاص کر لے۔

الصَّفِيَّة: زیادہ دودھ والی اونٹنی۔ بہت
پھلدار کھجور۔ جمع صَفَايَا۔

المِصْفَاةُ: چھنا۔ جمع مِصْفَابٍ:
المِصْفَطِي: ہرگزیرہ۔ چنا ہوا۔

صَقِبٌ: (س) صَقَبًا. المَكَانُ: قریب
ہونا۔ بعید ہونا۔

صَقَبَةٌ: (ن) صَقَبًا: چھڑ مارنا..... الشَّيْءُ:
جمع کرنا..... البِنَاءُ: عمارت کو بلند کرنا۔

الطَّائِرُ: پرندہ کا آواز کرنا۔
صَاقِبَةٌ صَقَابًا وَمُصَاقِبَةٌ: قریب کرنا۔ کہا

صُفْنٌ وَصُفْنٌ وَأَصْفَانٌ وَصُفْنَانٌ۔

الصُّفْنُ: چمڑے کی چھاگل۔ چرواہے کا
تویرہ۔

الصَّفْنَةُ: ایک مرتبہ بعد از حصص پانی تقسیم
کرنا۔ دسترخوان۔ مستی کے وقت اونٹ کے
منہ کی چھاگل۔ چرواہے کا تویرہ۔

الصُّفْنُ: جمع أَصْفَانٍ وَصُفْنَانِ الصَّفْنَةُ:
خسیر کی تھیلی۔

الصَّافِنُ: پنڈلی کے نچلے حصہ میں ایک رگ۔
بِنِ الخَيْلِ: وہ گھوڑا جو تین ٹانگوں پر کھڑا ہو
اور چوتھے پاؤں کا صرف کھر زمین پر
لگے۔ جمع صَافِنَاتٍ وَصَوَافِنٍ وَصُفُونٍ۔

صَفَا يَصْفُو صَفْوًا وَصَفَاءً وَصُفْوًا:
صاف ہونا..... الجَوُّ: نفا کا بے ابر و باد
ہونا۔ القَلْبُزُ: دیک کا خالص حصہ لے لینا۔
صَفَّتْ تَصْفُو صَفْوًا وَصَفَوْتُ صَفَادَةً
النَّاقَةُ: بہت دودھ والی ہونا۔

صَفِيٌّ تَصْفِيَّةٌ. الشَّيْءُ: صاف ستھرا کرنا۔

أَصْفَى إِصْفَاءً. فَلَانَا الْوُدُّ. وَأَصْفَى لَهُ
الْوُدُّ: خالص محبت کرنا..... الَّذِي يَحْفَرُ:
کھودتے ہوئے پتھر تک پہنچ جانا جو آئندہ
کھودنے سے روک دے۔ أَصْفَبْتُ
الذَّجَاجَةَ: مرغی کا نڈے دینے سے رک جانا

..... الشَّاعِرُ: شاعر کہنے سے رک جانا اور اسی
سے ضرب المثل ہے "أَنَا شَاكِرُكَ الَّذِي
يَصْفِي وَشَاعِرُكَ الَّذِي لَا يَصْفِي" یعنی
تمہارا ایسا شکر گزار ہوں جو خالص محبت کرتا
ہے اور ایسا شاعر ہوں جو شعر کہنے میں رکنا
نہیں۔ أَصْفَى مِنَ الْمَالِ: مال سے خالی
ہونا..... بَكْغَذَا: مخصوص کرنا۔ راضی کر دینا

..... الشَّيْءُ: کل لے لینا۔
صَافِيٌّ مُصَافَاةً. فَلَانَا: خالص محبت کرنا۔
تَصَافَى. الْقَوْمُ: بعض کا بعض سے خالص
محبت کرنا۔

إِسْتَصْفَى. الْمَالُ: کل لے لینا.....
الرَّجُلُ: خالص دوست بنانا۔ کہا جاتا ہے
"إِسْتَصْفَاهُ وَإِصْطَفَاهُ" یعنی چن لینا۔

.....

مصیبت۔
الصَّفَاقُ: صافق کا اسم مبالغہ۔ بہت زیادہ
تجارت کے لئے سفر کرنے والا اور لین دین
کرنے والا۔

الصَّفْوُقُ: بلند پہاڑ جس پر چڑھنا دشوار ہو۔
بلند چکنی چٹان۔ نزم کمان۔ جمع صُفُقٍ۔

الصَّفَاقُ: آنے جانے والے قافلے۔
الصَّفَاقُ وَالصَّوَالِقُ: مصیبتیں۔ حوادث۔

الصَّفِيْقُ: بے حیاء۔ بے شرم۔ کہا جاتا ہے
"وَجْهٌ صَفِيْقٌ" بے شرم چہرہ "ثَوْبٌ صَفِيْقٌ"
گف۔ کپڑا۔

المُصَفَّقُ: راستہ۔

المُصَافِقُ: فاف۔ ہاتھ پر ہاتھ مارنے والا.....
مِنَ الْإِنْبِلِ: جو ایک مرتبہ ایک پہلو پر سوائے
اور دوسری مرتبہ دوسرے پہلو پر۔

صَفْنٌ: (ض) صُفْوَانًا. الْقَرْمَسُ: گھوڑے کا
تین ٹانگوں اور چوتھے کے کھر پر کھڑا ہونا
..... الرَّجُلُ: دونوں قدم کو ایک قطار میں کرنا

..... بِالْأَرْضِ زَمِينٍ: پردے مارنا.....
صَفْنًا) الطَّائِرُ الخَيْشِيشُ أَوْ الْوَرَقُ:
پرندے کا اپنے بچے کے لئے گھاس یا پتوں کو
تہ بتر رکھنا..... الرَّجُلُ: خصیتین کی تھیلی کو
پھاڑ دینا۔

صَافِنٌ. الْقَوْمُ: قوم کے مقابل کھڑا ہونا۔
المَاءُ بَيْنَهُمْ: پانی کو آپس میں تقسیم کرنا اور یہ
اس طریقہ سے کہ برتن کی تہ میں کوئی کنکری
وغیرہ رکھ دیتے تھے اور پھر اس میں پانی

ڈالتے تھے جس سے کنکری تہ آب ہو جائے
پھر ایک آدمی پیتا تھا پھر پانی ڈالتے تھے تو
دوسرا پیتا تھا اور پھر اسی طرح کرتے رہتے
تھے تاکہ ہر ایک کو برابر برابر پانی مل جائے

اور یہ طریقہ پانی کی کمی کی وجہ سے سفر میں
اختیار کیا کرتے تھے۔

تَصَافَنَ. الْقَوْمُ الْمَاءَ: مذکورہ بالا طریقہ سے
پانی تقسیم کرنا۔

الصُّفْنُ: خسیر کی تھیلی۔ چمڑے کا دسترخوان
مستی کے وقت اونٹ کے منہ کی چھاگل۔ جمع

جاتا ہے لقیئتہ صقَابًا: یعنی رودر و ملاقات کی۔

أَصْقَبُهُ: نزدیک کرنا۔ أَصْقَبَ الشَّيْءُ: قریب ہونا۔ کہا جاتا ہے "أَصْقَبَكَ الصَّيْدُ": یعنی شکار تم سے قریب ہے جس پر نشانہ لگانا ممکن ہے۔

الصَّقْبُ: مکان کے اندر سب سے لبا کھبا۔ ج صُقُوب لبا۔ ج صِقَاب و صُقَبَان۔

الصَّقْبُ وَالصَّقْبُ: قریب۔ نزدیک۔ کہا جاتا ہے "ذاری من ذارہ بَصْقَب" میرا گھر اس کے گھر کے قریب ہے۔ "الجَارُ أَحْقُ بِصَقْبِهِ" پڑوسی اپنی قربت کی وجہ سے زیادہ حق دار ہے۔

الصَّقْبَانِي: عطر فروش۔
الصَّقْفُ وَالصَّفْحَةُ: حج۔ سر کے اگلے حصہ کے بال گر جانا۔

الاصْفَحُ: گنجا۔ مَوْنُثُ صَفْحَاءُ جمعُ صَفْحَةٍ: صَفْرَةٌ (ن) صَفْرًا بِالْعَصَاءِ: لاٹھی سے مارنا۔ اسی سے ہے "صَفْرُنِي بَكْلَامِيه" اس نے مجھ کو اپنی گفتگو سے تکلیف پہنچائی۔ بہ الارْضُ: زمین پر پلک دینا..... الْحَجَارَةُ: ہتھوڑے سے پتھر توڑنا۔

صَفْرٌ وَصَفْرٌ: النَّازُ: آگ کو جانا۔
صَفْرَتٌ (ن) صَفْرًا وَصَفْرَةً
وَاصْفَرَتِ: الشَّمْسُ أَوْ النَّازُ: آفتاب یا آگ کا تیز گرم ہونا۔ صَفْرَتُهُ الشَّمْسُ: آفتاب کا جلنا دینا۔

صَفْرٌ (ن) صَفْرًا وَاصْفَرَّ اللَّيْنُ: دودھ کا زیادہ کھنا ہونا۔

تَصَفَّرَ: شکرہ سے شکار کرنا..... بِالْمَكَانِ: مکان میں ٹھہرنا۔ تَصَفَّرْتُ وَاصْطَفَّرْتُ النَّازُ: آگ کا جلنا۔

الصَّفْرُ: گدھ اور عقاب کے علاوہ ہر پرندہ جو شکار کرے۔ شکرہ ایک پرندہ ہے جس سے شکار کیا جاتا ہے جس کو فارسی میں چرغ کہتے ہیں۔

ج أَصْفَرُ وَصُقُورٌ وَصُقُورَةٌ وَصِقَارٌ وَصِقَارَةٌ وَصُقْرٌ: کہا جاتا ہے "صُقْرٌ صَاقِرٌ" یعنی تیز نگاہ والا۔

الصَّقْرُ: بہت کھٹا دودھ۔ سڑا ہوا پانی۔ ج صُقُورٌ وَصِقَارٌ۔

الصَّقْرُ وَالصَّقْرُ: شیرہ۔ تر کھجور کا ہوا خشک انگور کا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا التَّمْرُ أَصْفَرٌ مِنْ ذَاكَ" مراد یہ ہے کہ اس میں شیرہ زیادہ ہے۔

الصَّقْرَةُ: بہت کھٹا دودھ۔
صُقْرٌ: طبقہ۔ جنم کا نام۔ یہ کلمہ غیر منصرف ہے اور ستر میں ایک لغت ہے۔

الصَّقِرُ: مِنَ الرُّطْبِ أَوْ الزَّيْبِ: تر کھجور یا خشک انگور جو رس نکالنے کے قابل ہو۔ امْرَأَةٌ صُقْرَةٌ: بہت تیز نگاہ والی عورت۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ بِالصَّقْرِ وَالْبَقْرِ أَوْ بِالصَّقَارِي وَالْبِقَارِي: یعنی سفید جھوٹ بولا۔

الصَّقْرَةُ: پرندہ کی ہنری یا سیاہی کا سرخی یا زردی سے ملنا۔

الصَّقْرَةُ: حوش کا بقیہ پانی۔
الصَّقْفُورُ: ہتھوڑا جس سے پتھر توڑا جائے۔
كِدَالٌ (..... وَالصَّاقِرَةُ): مصیبت۔ بڑی مصیبت۔

الصَّقْفُورَةُ: کھوپڑی کا اندرونی حصہ۔
الصَّقْفَارُ: چغندر خور۔ کافر۔ غیر مستحقین کو لعنت کرنے والا۔ شیرہ کا بنانے والا اور بیچنے والا۔

صَقَعَهُ (ف) صَقَعًا: سر پر مارنا۔ صَقَعَهُ بِه الأَرْضُ: پچھاڑ دینا..... الرَّجُلُ: جانا۔ کہا جاتا ہے "مَا أَذْرِي أَيْنَ صَقَعٌ": یعنی میں نہیں جانتا کہاں گیا۔ راستہ سے ہٹ جانا یا بھلائی اور کرم کے راستہ سے ہٹ جانا.....

الْحَمَارُ بَكِيٌّ: گدھے کے منہ یا سر پر داغ لگانا۔ کہا جاتا ہے "صَقَعْتُهُ الصَّاعِقَةَ": بمعنی صَقَعْتُهُ الصَّاعِقَةَ: یعنی اس کے اوپر بجلی گری۔

صَقَعَهُ (ف) صَقَعًا وَصَقَعًا وَصَقِيئًا

الدُّيُكُ: مرغ کا بانگ دینا..... صَقَعًا وَصَقَاعًا) بِصَوْتِهِ: آواز بلند کرنا۔

صَقَعٌ: (س) صَقَعًا. الرَّجُلُ: بے ہوش ہونا۔

الْقَرَسُ أَوْ الطَّائِرُ: سر کے درمیان سفید ہونا۔ صفت أَصْفَعُ. صَقَعَتِ البُتْرُ: کنواں گر جانا۔

صَقَعٌ وَأَصْفَعُ. المَكَانُ: بچ والا ہونا۔ پالا پڑنا۔ صَقَعٌ. لِفُلَانٍ: کسی کے لئے قسم کھانا۔
أَصْفَعُ الرَّجُلُ: بچ پر چلنا..... الصَّقِيْعُ الأَرْضُ: بچ پڑنا۔

الصَّقَعُ: جانب۔ گوشہ۔ ج اصقاع.
الصَّقَعُ: سر میں بال کم ہونا یا بالکل نہ ہونا۔
الصَّقِيْعُ: گنجا۔ غائب آدمی جس کے متعلق معلوم نہ ہو کہ کہاں ہے۔ مَكَانٌ صَقَعٌ: پالا زدہ جگہ۔

الصَّقْفَةُ: گھوڑوں اور پرندوں کے وسط سر میں سپیدی۔

الصَّقْعَاءُ: مَوْنُثُ أَصْفَعُ: کا۔ آفتاب۔
الصَّقَاعُ: جھوٹا۔ کہتے ہیں "صَهُ صَقَاعٌ" یعنی اے جھوٹے چپ رہ۔

الصَّقَاعَةُ: مَوْنُثُ صَقَاعُ: کا۔ بجلی۔
الصَّقَاعُ: برقع۔ اوزہنی کوتیل سے بچانے کے لئے چھوٹرا۔ وہ چیز جس سے اوزہنی کی ناک کو باندھ دیں۔ اونٹ کی گدھی پر داغ۔

صَقَعُ الجِبَاءِ: وہ رسی جس کو خیمہ کے اوپر ڈال دیں اور اس کے دونوں کناروں کو دو طرف کھونٹے میں باندھ دیں اور ایسا اس وقت کرتے ہیں جب کہ ہوا کی تیزی کی وجہ سے خیمہ کے اکھڑ جانے کا خوف ہو۔

الصَّقِيْعُ: بچ۔ پالا۔ ایک قسم کی بھڑ۔
المِصْقَعُ: تصحیح۔ بلند آواز والا۔ وہ شخص جس کو اپنے کلام میں التباس نہ ہو۔ ج مَصْقَعٌ۔

الصَّقْفَةُ: سر پر مارنا۔
الصَّقْوَقَةُ: عمامہ۔ سر کا درمیانی حصہ۔ اوزہنی کوتیل سے بچانے والا کپڑا۔

صَقَعَهُ (ف) صَقَعًا وَصَقَعًا وَصَقِيئًا

الصَّقَب: لباً۔ آواز نکالنے والا۔
(دانتوں سے یا دروازے سے)

صَقَّرَ: فِي أَذْيَبِهِ: دکان میں چلانا۔

الصَّقْفَر: ٹھنڈا پانی۔ سزا ہوا پانی۔

صَقَل (ن) صَقْلًا وَصِقْلًا: الشَّىءُ:

صاف کرنا۔ چکنا کرنا۔ زنگ دور کرنا۔ صفت

صَاقِلٌ بِحِ صَقْلَةٍ: صفت مفعول مَصْفُوقٌ

..... الذَّابَّةُ: دہلا کرنا..... هِ بِالعَصَا: لاشی

سے مارنا..... بِه الأَرْضُ: زمین پر پتک

دینا۔

صَقِل (س) صَقْلًا: صاف شدہ ہونا۔

الصَّقَل: گھوڑے کے پہلو کی لمبائی۔

الصُّقْل: پہلو۔ جانوروں میں ہلکا چمکا۔

الصُّقْلُ وَالصُّقْلَةُ: کمر۔

الصِّقْلُ: مختلف چال والا۔ کم گوشت کا

گھوڑا۔ فَرَسٌ صَقِيلٌ: لمبے پہلو کا گھوڑا۔

الصِّقْلُ: صَاقِلٌ: کا مبالغہ۔ کواروں کو تیز

کرنے والا۔ بِحِ صِاقِلٍ وَصِاقِلَةٍ:

الصِّقْلُ: صاف کیا ہوا۔ کوار۔

الصِّقَالُ: صَاقِلٌ: کا مبالغہ۔

صِقْبِيَّةٌ وَصِقْبِيَّةٌ: بزرگ سلی جو اٹلی کے

جنوب مغرب میں ہے۔

المِصْقَلُ: مِنَ الخُطْبَاءِ: فصیح و بلیغ۔

المِصْقَلَةُ: جس سے صیقل کیا جائے۔

الصَّقْلَبُ وَالصَّقْلَبِيُّ وَالصَّقْلَابِيُّ: ایک

قوم جو بلخ اور قسطنطنیہ کے درمیان رہا کرتی

تھی اور بعد میں یورپ میں پھیل گئی۔

صَّكَّهُ (ن) صَكًّا: زور سے مارنا۔ طمانچہ

مارنا۔ صَكَّ البَابُ: دروازہ بند کر دینا۔

صَكَّ (س) صَكًّا: زور سے مارنا۔ طمانچہ

المِصْقَلُ: چلنے میں گھٹنے اور ایزویوں کا ٹکرائنا۔

صفت أَصْكٌ

إِصْطَكْتُ رُكْبَتَهُ: چلنے میں گھٹنوں کا ایک

دوسرے سے ٹکرائنا "إِصْطَكْتُ القَوْمَ

بِالسُّيُوفِ": تلوار سے لڑنا۔

قَصَّاحَتٌ: الرُّكْبُ: نر انوکھا کر رکھنا۔

الصَّكُّ: چک۔ اقرار نامہ۔ بِحِ أَصْكٌ

وَصُكُّوكٌ وَصُكَّاكٌ:

الأَصْكُ: چلنے میں گھٹنے اور ایزویوں کو

ٹکرائنے والا۔ لمبے ہوئے ڈاڑھ اور دانت

والا۔ قوی۔ مَوْنَتْ صُكَّاءُ بِحِ صُكٍّ:

الصُّكَّاكُ: زور سے طمانچہ مارنے والا۔

چپک لکھنے والا۔ چپک کی حفاظت کرنے

والا۔

الصُّكِّيكَ: کمزور۔

المِصْكُ: مضبوط۔ جس سے دروازہ کو بند

کیا جائے۔

المَصْكُوكَاتُ: دو اہم دوائیں۔

صَكْمَةٌ: (ن) صُكْمًا: مارنا۔ صُكْمٌ

المِصْرَمُ عَلَيَّ لِجَنَابِهِ: گھوڑے کا گام کو

چبانا۔

الصُّكْمَةُ: صدمہ شدیدہ۔

الصُّوَاكِمُ: مصائب۔ حوادث۔ کہا جاتا ہے

"صُكْمَتُهُ وَصُّوَاكِمُ الذُّهْرِ" اس کے اوپر

زمانہ کی مصیبتیں پڑیں۔

صَلُّ: (ض) صَلِيلاً السَّلَاحُ: جھنکار ہونا

..... الشَّىءُ: آواز دینا..... المِصْمَارُ: ٹھونکا

جانا اور کسی چیز میں زبردستی داخل کرنا

..... الإِبْسَلُ: اونٹ کی آنتوں کا پیاس سے

خشک ہونا جس سے پانی پیتے ہوئے آواز

سنائی دے..... السَّقَاءُ: منگ کا خشک ہونا

(..... صَلُولًا) اللُّخْمُ: گوشت کا بدبودار

ہونا..... المَاءُ: پانی کا متغیر ہونا۔

صَلُّ (ن) صَلًّا: الشَّرَابُ: صاف کرنا

..... العَبُّ المُخْلَطُ بالترَابِ: پانی ڈال

کردانے کو مٹی سے جدا کرنا..... الخُفُّ: چرمی

موزہ پر اسٹر لگانا۔ کہا جاتا ہے "صَلَّتْهُمُ

الصَّلَاةُ" یعنی ان کو مصیبت لاحق ہو گئی۔

أَصْلُ اللُّخْمِ: گوشت کا بدبودار ہونا.....

الْقَدَمُ المَاءُ: دیر تک ٹھہرنے سے پانی کو

متغیر کر دینا۔

الصُّلُّ: گوشت وغیرہ جو متغیر ہو جائے۔

الصِّلُّ: خبیث قسم کا سانپ۔ مصیبت۔

بِسر۔ کہا جاتا ہے "هَذَا صِلٌ ذَاكٌ" یعنی

اس کے مماثل ہے۔ تلوار۔ بِحِ أَصْلَالٍ کہا

جاتا ہے "هُوَ صِلٌ أَصْلَالِي" یعنی وہ بڑا

مکار غیبت ہے۔

الصِّلُّ وَالصَّلُّ وَالصَّلَّةُ: تھوڑی متفرق

پارش۔

الصَّلَّةُ: وباغت سے پہلے خشک چیز یا بدبودار

چیز یا جوتا۔ چوڑ۔ شدید بارش۔ تازہ گھاس

کے متفرق ٹکڑے۔ ترمٹی۔

الصَّلَّةُ: بدبودار ہوا۔ بقیہ پانی۔

الصَّلَّةُ: مصیبت۔

الصَّلَاةُ: چرمی موزے کا اسٹر۔ بِحِ أَصْلَةٍ:

صَلَاةٌ: العَبُّ: غلے کا کوڑا کرکٹ۔

الصَّلِيلُ: جھنکار ہونے کی یا تلوار کی۔

الصَّلَالُ وَالْمِصْلَالُ: مِنَ الطَّيْنِ: خشک

مٹی جو لوہے کی مانند آواز دے۔ مَاءٌ

صَلَّلٌ: متغیر پانی۔

الصَّلِيَانُ: ایک قسم کی نباتات۔ واحد

صَلِيَانَةٌ

المِصْلِيلُ: سردار۔ شریف۔ خالص النیب۔

کثیر بارش۔

صَلَبَهُ (ن ض) صَلَبًا: سولی دینا.....

اللُّخْمُ: گوشت بھوننا..... العِظَامُ: ہڈیوں

سے گودا نکالنا..... صَلَبَةُ الشَّمْسِ:

آفتاب کا جھلس جانا۔ صَلَبْتُ عَلَيْهِ

العُخْفِيُّ: بخار کا ہمیشہ اور تیز رہنا۔

صَلَبٌ (كس) صَلَابَةٌ: سخت ہونا.....

عَلَى العَالِ: بجل کرنا۔

صَلَبُ الشَّىءِ: سخت کرنا..... الشَّىءُ: سخت

ہونا اور خشک ہونا..... البِلَصُ: چور کو سولی

دینا۔

..... المِصْبِحِيُّ: ہاتھ سے صلیب کا نشان

بنانا۔

أَصْلَبَتِ النَّاغَةُ: بچو کو دودھ پلاتے ہوئے

اونٹنی کا اپنی گردن کو آسمان کی طرف اٹھانا۔

تَصَلَّبَ: سخت ہونا۔

إِصْطَلَبَ: العِظَامُ: ہڈیوں سے گودا نکالنا۔

الصَّلَبُ: بڑبڑانے کی ہڈی۔ چرمی۔ گودا۔ سخت

زمین۔ صِصْلَبَةٌ وَأَصْلَابٌ : ان زمینوں کو جو ایک زمانے سے جوئی نہ گئی ہوں ان کے لئے کہتے ہیں "إِنَّهَا لَا أَصْلَابٌ مُنْذَاعُوَامَ"۔

الضُّلْبُ : سخت۔ کہا جاتا ہے "هُوَ ضَلْبٌ فِی

دِیْنِهِ" : وہ اپنے دین میں سخت ہے۔ "زَاع

ضَلْبُ الْعَصَا" جبکہ اونٹوں پر سختی کرتا ہو۔

رِیْضَہ کی بڑی۔ صِصْلَابٌ وَأَصْلَبٌ

وَصَلْبَةٌ اور کہا جاتا ہے "هُوَ مِنْ ضَلْبٍ

فُلَانٍ" یعنی فلاں کی نسل اور اولاد سے ہے۔

الضُّلْبُ : قوۃ۔ حسب سخت پتھر جی جگہ۔

صِصْلَبَةٌ۔

الضُّلْبُ : ایک پرندہ ہے۔

الصَّالِبُ : فَا۔ حُمَّى صَالِبٌ : تیز بخار جس

میں کچھ بھی ہو۔

الصَّالِبُ وَالصَّالِبُ : رِیْضَہ کی بڑی۔

الضُّلْبُ : سخت۔ سان رکھنے کا پتھر۔ رِیْضَہ

کی بڑی۔

الصُّلْبَةُ : سان رکھنے کا پتھر۔

الضُّلْبِيُّ : سخت۔ جس سے سان رکھا جائے۔

سِنَانٌ ضُّلْبِيٌّ : تیز نیزے۔

الضُّلْبِيَّةُ : بمعنی ضُّلْبِيٌّ : تا مبالغہ کے لئے

ہے۔

الْمُضَالِبُ : وہ ستون جس کے چار حصے

بنائے گئے ہوں۔

الْأَبْسُوبُ : وہ ستون لمبا جس کے حصے نہ

ہوں۔

الْأَعْرَاجُ : وہ ستون جو دو پر قائم ہو اور باقی

لمبا ہو۔

الضُّلْبِيُّ : وہ لکڑی جس پر عیسائیوں کے

گمان کے مطابق حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ

السلام کو سولی دی گئی۔ ہر وہ جو دو خط کی شکل

پر جو آپس میں تقاطع کرتے ہوں جس پر سولی

دی جائے۔ صِصْلَابَانٌ وَضَلْبٌ : قوی۔

سولی دیا ہوا۔ چرلی۔ گودا۔ کہا جاتا ہے

"إِسْتَخْرَجَ ضَلْبَ الْعَظِيمِ" یعنی بڑی کا

گودا نکال لیا۔ جھنڈا۔ لَدَى ضَلْبِ عَلِيٍّ

ضَلْبٌ : خالص نسب والا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ

عَرَبِيٌّ ضَلْبِيٌّ" وہ خالص عربی ہے۔

"ذُو الضُّلْبِ" لقب ہے "الْأَخْطَلُ" نصرانی

شاعر کا۔

الضُّلْبِيُّ : وَاوْحَدُ الضُّلْبِيَّةِ : یہ ایک قوم

یورپ کی تھی جس نے بیت المقدس پر غلبہ

حاصل کرنے کے لئے فوج کشی کی تھی اور ان

کا نام یہ اس وجہ سے رکھا گیا کہ انہوں نے

اپنے جھنڈوں پر اور اپنے لباس پر صلیب کا

نشان بنا رکھا تھا۔

بَعِيْرٌ مُضَلَّبٌ وَمَضْلُوْبٌ : جس پر صلیب

جیسا داغ ہو۔ مَوْزَنٌ مُضَلَّبَةٌ وَمَضْلُوْبَةٌ

سِنَانٌ مُضَلَّبٌ : تیز نیزے۔ شَيْءٌ مُضَلَّبٌ

عَلَيْهِ : جس پر صلیب جیسا نشان ہو۔ ضُوْبٌ

مُضَلَّبٌ : جس کپڑے پر صلیب کا نشان ہو۔

ضَلَّتْ : (ن) ضَلْنَا. الْقَوْمُ ضَلُّوا : گھوڑے کو

ایڑ مارنا۔

ضَلَّتْ : (ک) ضَلُوْنَا. الرُّجُلُ : کشادہ

پیشانی والا ہونا۔

أَضَلَّتْ. السَّيْفُ : تلوار سونتا۔

إِنْضَلَّتْ. فِیْ عَدُوِّهِ : دوڑ میں آگے نکل

جاتا۔

الضَّلَّتْ : کشادہ ہوا اور ابھری ہوئی پیشانی۔

کہا جاتا ہے "جَبِيْنٌ ضَلَّتْ" کشادہ پیشانی۔

الضَّلَّتْ وَالضَّلَّتْ : بڑی چھری۔ صِصْلَابَاتٌ

الضَّلَّتْ وَالضَّلَاتَانُ وَالضَّلَاتُ

وَالضَّلَاتِيٌّ وَالضَّلَاتُ وَالْمَضْلُوتُ

وَالْمَضْلُوتَانُ وَالْمَضْلُوتُ : مِنَ الرِّجَالِ :

بہادر آدمی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مِنْ مَضَالِيْتٍ

الرِّجَالِ" : وہ بہادر آدمیوں میں سے ہے۔

الضَّلَّتْ وَالضَّلَاتِيَّتُ وَالْمَضْلُوتُ مِنَ

السُّيُوفِ : جھینٹل شدہ تیز تلوار۔

الْمَضَالِقَةُ : باہم درگتواری بازی کرنا۔ شاعر کا

کسی دوسرے کے شعر کو لفظاً و معنی لے لینا اور

یہ سرفراز شعر یہ میں بیچ ترین ہے۔

ضَلَّحَ : (ن) ضَلَّحْنَا. الْفِضَّةُ : چاندی

پگھلانا۔ ضَلَّحَهُ. بِالْعَصَا : لاٹھی سے مارنا۔

ضَلَّحَ (س) ضَلَّحْنَا. سَمَّعُهُ : بہرا ہونا۔

تَضَلَّحَ. الرُّجُلُ : بہرا ہونا۔

الضُّلْحُ : کھرے درہم۔

الضُّلْحَةُ : ریشم کے کپڑے کا خول۔ صِصْلَابٌ

الضُّلْحَةُ : پتھلی ہوئی صاف خالص چاندی

کا ٹکڑا۔

الضُّوْلُجَانُ وَالضُّوْلُجَانَةُ : ٹیز حصے سرے

کی لاٹھی۔ صِصْلَابَةُ

الضُّوْلُجِ : خالص چاندی۔ کان کا سوراخ۔

نُيْرَمِيٌّ كُزْمِيٌّ

الضُّلْحُ : سخت چکنا۔ بہرا۔

ضَلَّحَ (ک ف ن) ضَلَّحْنَا وَضَلَّحْنَا

وَضَلَّحِيَّةٌ : درست ہونا۔ فساد کا زائل ہونا۔

کہا جاتا ہے "ضَلَّحْتُ حَالَ فُلَانٍ" فلاں کا

حال درست ہو گیا۔ الرُّجُلُ : نیک ہونا

..... فِیْ عَمَلِهِ : کام میں درست ہونا۔ کہا

جاتا ہے "هَذَا يَضْلُحُ لَكَ ضَلَّحْنَا" :

یعنی تمہارے موافق ہے۔ تمہارے لائق

ہے۔

ضَلَّحَهُ ضَلَّحْنَا وَضَلَّحِيَّةٌ : موافق ہونا۔

ضَلَّحَ : صلیح کرنا۔

أَضْلَحَ. الشَّيْءُ : درست کرنا۔ بَيَّنَّهُمْ : صلح

کرانا۔ إِلَيْهِ : اچھا کرنا۔ کہا جاتا ہے

"أَضْلَحَ اللَّهُ فِیْ ذُرِّيَّتِهِ وَمَالِهِ"۔

تَضَلَّحَ وَاضْطَلَّحَ وَاضْطَلَّحَ وَاضْلَحَ

الْقَوْمُ : رضامند ہونا۔

إِسْطَلَّحَ. الشَّيْءُ : درستی چاہنا۔

الضَّلْحُ : سلامتی۔ درستی۔ مہالحت کا اسم

ہے (مذکر مؤنث) کہا جاتا ہے "هَمَّ لَنَا

ضَلْحٌ" یعنی صلح کرنے والے ہیں۔ کہا جاتا

ہے "قَوْمٌ ضَلُّوحٌ" یعنی رضامند ہیں۔ مصدر

کے ساتھ وصف بیان کیا گیا ہے۔

الضَّلْحِيَّةُ : وہ حالت جس سے کوئی چیز

درست ہو۔

إِلْضَلَّاحٌ : عرف خاص۔ یعنی کسی جماعت

خاص کا کسی چیز پر یا کسی کلمہ کے وضع پر اتفاق کر لینا۔ ج اصطلاحات۔

الصالح: نیک۔ ٹھیک۔ درست۔ حقوق و واجبات پورے کرنے والا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ صَالِحٌ بَعْدًا": یعنی اس کے اندر فلاں کام کی اہمیت و قابلیت ہے اور بسا اوقات کثیرے کے نایہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں "لَهُ حَقٌّ صَالِحٌ مِنَ الْاَدَبِ" یعنی اس کے لئے ادب کا حصہ کثیر ہے۔ ج صَلَاحٌ وَصَلَحَ۔

الصَّالِحَةُ: مؤنث صالحہ کا۔ کہا جاتا ہے "اتَّبَعِي صَالِحَةً مِنْ فُلَانٍ" یعنی فلاں کی طرف سے مجھے بہت نعمت یا بڑی بھلائی پہنچی۔

الصِّلِح: بمعنی صالح۔ ج صَلَحَاءُ الْمَنْصَلِحَةُ: جو صلاح پر براہِ راست کرے۔

صَلَحِي: بمعنی صالح۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مِنْ اَهْلِ الْمَقَابِلِ لَا الْمَصَالِحِ"۔

صَلَحَ (س) صَلَحًا: سَمِعَهُ: سخت بہرا ہوا۔ تَصَالَحَ: بہرا بنا۔

إِصْلَحَ: بُلِيًا۔

الصَّالِح: بمعنی السَّالِح: یعنی خارش۔ کہا جاتا ہے "جَرَبٌ صَالِحٌ وَسَالِحٌ" کالا سانپ۔

الأصْلَح: بہت بہرا۔ مِنْ الْجَمَالِ: خارش اونٹ۔ مؤنث صَلَحَاءُ ج صَلَحٌ۔

الصَّلِخ: بہرا پن۔ خارش۔ وَاهِيَةٌ صَلُوخٌ: ہلاک کرنے والی مصیبت۔

إِصْلَحْتُ: سیدھا کھڑا ہوا۔

الصَّلْحَدُ وَالصَّلْحَدُ وَالصَّلْحَدُ وَالصَّلْحَدُ وَالصَّلْحَدُ وَالصَّلْحَدُ وَالصَّلْحَدُ وَالصَّلْحَدُ وَالصَّلْحَدُ وَالصَّلْحَدُ

کھڑا ہوا۔ دوڑنے میں پاؤں کو زمین پر مارنا۔ الرِّجْلُ فِي الْجَبَلِ: پہاڑ پر چڑھنا۔ صَلَدَ السَّائِلُ: کچھ نہ دینا۔

بَيْدِيَّة: تالی بجانا۔

صَلَدَ (ك) صَلَاةً وَصَلَدَ تَصْلِيْدًا: بجل کرنا۔

أَصْلَدَ: الزَّنْدُ: بغیر آگ نکلنے کے چھماق کا آواز کرنا۔ أَصْلَدَتِ الْأَرْضُ: سخت ہونا۔

أَصْلَدَ الزَّنْدُ: بغیر آگ کے چھماق سے آواز نکلتا۔

الصَّلْدُ: ٹھوس۔ چکنا۔ وہ زمین جس میں کچھ نہ اُگے۔ کہا جاتا ہے "أَرْضٌ صَلْدَةٌ وَمَكَانٌ صَلْدٌ" ج أَصْلَادٌ فَرَسٌ صَلْدٌ: وہ گھوڑا جس کو پینہ نہ آئے اور یہ صفت مذمومہ ہے۔

زَامِسٌ صَلْدٌ: جس پر بال نہ نکلیں۔ جَبِيْنٌ صَلْدٌ: سخت پیشانی۔ رَجُلٌ صَلْدٌ: بخل مرد۔

الأصْلَدُ: بخل۔ مؤنث صَلْدَاءُ ج صَلْدٌ۔

الصَّالِدُ: قا۔ وہ چھماق جس میں آگ نہ نکلے۔

الصَّالِدَةُ: مؤنث صَالِدٌ: کا۔ دانت جس کے پینے میں آواز نکلے۔ ج صَوَالِدٌ۔

الصَّلْوُدُ: آگ نہ دینے والا چھماق۔

ٹھوس۔ اکیلا۔ بہت بخیل۔ خَشَكٌ فَرَسٌ صَلْوُدٌ: وہ گھوڑا جس کو دیر میں پینہ نہ آئے۔

قَبْلُ صَلْوُدٌ: وہ ہانڈی جسے دیر میں جوش آئے۔ اِمْرَاةٌ صَلْوُدٌ: بے برکت عورت۔

الصَّلْوُدُ: ٹھوس چکنا۔

الصَّلِيدُ: اکیلا۔

عَوْدٌ صَلَادٌ وَمِضْلَادٌ: نہ نکلنے والی کھڑی۔

نَاقَةٌ مِضْلَادٌ: بے دودھ کے بچے والی اونٹنی۔

الصَّلْدَاءُ وَالصَّلْدَاءُ: سخت ٹھوس زمین۔

الصَّلْدَح: چوڑا پتھر۔

الصَّلْوُدَح: سخت قوی۔

الصَّلْدِيم: ٹھوس۔ سخت کھر۔ شیر۔ ج صَلَادِمٌ۔ الصَّلْوَرُ: ایک قسم کی چھلی۔

صَلَّصَ صَلَّصَةَ الْخَلْيِ اَوِ اللَّجَامِ: زیور یا لگام سے آواز نکلتا۔ الرِّغْدُ: صاف

گرجنا۔ الْجَرَسُ: آواز کو دہرائنا۔ فُلَانًا: دھمکی دینا۔

تَصَلَّصَ: اللَّجَامُ اَوِ الْخَلْيُ: لگام یا زیور سے آواز نکلتا۔

الصَّلَّصُ: گھوڑے کی پیشانی۔ گھوڑے کی پیٹھ کی سفید جگہ۔ چھوٹا پیالہ۔ برتن میں بقیہ پانی یا اور کوئی چیز۔ ماہر چرواہا۔ فاختہ۔

الصَّلَّصَالُ: بھگنٹانے والی خشک مٹی۔

وَالصَّلَّاصِلُ وَالصَّلَّاصِلُ: آواز دینے والا گدھا۔

الصَّلَّاصِلَةُ: زمین جس میں کوئی نہ ہو۔

الصَّلَّاصِلُ: مصدر مسمی۔ خالص النسب۔ شریف سردار۔

الصَّلَّاطَةُ وَالصَّلَّاطَةُ: سلا۔ یعنی بھری پیاز۔ نمک تیل اور دیگر اشیاء سے کچا کھانا تیار کیا جائے۔

إِصْلَنْطَحَتِ: البَطْحَاءُ: کشادہ ہونا۔

الصَّلَّاطِحُ وَالصَّلَّاطِحُ: چوڑا کشادہ۔

صَلَعٌ (س) صَلَعًا: سر کے اگلے حصے کے بالوں کا گر جانا۔ صفت أَصْلَعُ ج صَلَعٌ وَصَلَعَانٌ: کہا جاتا ہے "صَلَعَتِ الشَّجَرَةُ" یعنی ٹہنیوں کے پتے گر گئے۔

صَلَعَتْ وَتَصَلَعَتْ وَانْصَلَعَتْ الشَّمْسُ: آفتاب کا بادل سے نکل آنا۔ الصَّحِيَّةُ: سانپ کا صاف ستھرا بغیر مٹی کے نکلتا۔

تَصَلَعَتِ السَّمَاءُ: بادل کا چھٹ جانا۔

صَلَاعٌ: الشَّمْسُ: آفتاب کی گرمی۔

الصَّلْفَةُ وَالصَّلْفَةُ: سر کا وہ حصہ جہاں سے بال گر گئے ہوں۔

الصَّلْفَاءُ: أَصْلَعٌ: کا مؤنث۔ خالی بیابان۔

مصیبت۔ رَمَلَةٌ صَلْفَاءٌ: بغیر درخت کے ریتلا میدان۔ ج صَلْعٌ۔

الصَّلْعُ وَالصَّلْبُ وَالصَّلَاعُ: چوڑا پتھر۔

مِنِ الْأَمْكِنَةِ: بجز زمین۔ زَامِسٌ صَلْبُوعٌ: سر جس کے اگلے حصے کے بال گر گئے ہوں۔

صَلَعَمٌ: صلی اللہ علیہ وسلم کا اختصار۔

صَلِيفٌ (س) صَلْفًا: ڈیک مارنا۔ صفت

صَلَفٌ مِّنْ صَلَفُونَ صَلَفَاءٌ
 وَصَلَفَانِي لِصَاحِبِهِ : غَيْرِ پَسَنْدِيدِہ باتیں
 کرنا الْمَرْؤَةُ عِنْدَ زَوْجِهَا : شوہر کے
 نزدیک بے وقعت ہونا۔ صفت صَلَفِيَّةٌ . ج
 صَلَفَاتٌ وَصَلَفٌ السَّحَابُ : زیادہ
 گرجنا اور پانی کم برشنا۔
 أَصْلَفٌ : بے برکت ہونا۔ گراں جان
 ہونا۔ فَلَاتًا : بغض رکھنا۔
 تَصَلَّفٌ : بہ تکلف ڈیک مارنا۔ چال چوسی کرنا
 الْقَوْمُ : سخت زمین پر پڑنا۔
 الصَّلْفُ : درخت خرما میں خالی ہونا۔ صَلْفَةٌ :
 واحد ہے۔
 الصِّلَفُ : بے مزہ کھانا۔ بھاری برتن۔ انشاء
 صِلْفٌ : کم پانی لینے والا برتن۔ سَحَابٌ
 صِلْفٌ : زیادہ گرج اور کم بارش کا بادل۔
 أَرْضٌ صِلْفَةٌ : زمین جس میں کچھ نہ اگے۔
 الصِّلِيفُ : گردن کا پہلو۔ کہا جاتا ہے
 "أَخَذَهُ بِصِّلِيفِهِ" یعنی پورا لے لیا۔ "طعام
 صِلِيفٌ" بے مزہ کھانا۔
 الْأَصْلَفُ : زمین کا وہ حصہ جو سخت ہو اور کچھ
 نہ اگے۔ جِ الصَّالِفُ .
 الصَّلَفَاءُ وَالصَّلَفَاءُ وَالصَّلَفَاءُ
 قَ : زمین کا وہ حصہ جو سخت ہو اور کچھ نہ اگے۔
 جِ الصَّلَافِي .
 الْمُصْلِفُ : بیوی کی بے قدری کرنے والا۔
 صَلَفٌ : مغلَسٌ ہونا۔ رَأْسُهُ : مونڈ دینا۔
 صَلَقٌ : (ان) صَلَقًا : الرَّجُلُ : مصیبت
 میں چبڑنا چلانا۔ صَلَقَهُ بِالْعَصَا : لاشی سے
 مارنا۔ صَلَقَهُ الشَّمْسُ : آفتاب کا گرمی
 سے تکلیف پہنچانا۔
 صَلَقٌ : (ان) صَلَقًا : نَابِيَهُ : دانت پینا۔
 أَصْلَقُ : الرَّجُلُ : مصیبت میں چبڑنا چلانا۔
 النَّابُ : دانت پیسنے میں آواز نکالنا۔
 تَصَلَّقَى : الضَّرِيضُ : درد کی وجہ سے مریض کا
 مضطرب و بے چین ہونا الْمَرْؤَةُ : دروزہ
 میں بتلا ہونا۔
 إِصْطَلَقَ : البَعِيرُ بِنَابِيهِ : اونٹ کا دانت

پینا۔
 الصَّلَاقَةُ : پانی جو ایک جگہ میں دیر تک
 رہے۔
 الصَّلَقُ : سخت آواز۔
 الصَّلَقُ : ہموار زمین۔ جِ أَصْلَاقٌ جِج
 أَصَالِيْقٌ .
 الصَّلِيْقُ : چکنا۔
 الصَّلِيْقَةُ : پتلی روٹی۔ چپاتی۔ گوشت کا بھنا
 ہوا ٹکڑا۔ جِ صَلَاقِيْقٌ .
 المِصْلَقُ وَالمِصْلَاقُ : مِنَ الخُطْبَاءِ : بیخ
 خلیب۔ جِ مِصْلَاقِيْقٌ وَمِصْلَاقِيْقٌ .
 المِصْلَاقِيْقُ : بڑے بڑے پتھر بلکے پھلکے
 اونٹ۔
 صَلَقٌ : مغلَسٌ ہونا رَأْسُهُ : سر مونڈنا۔
 صَوْتُهُ : آواز تیز کرنا۔
 الصَّلَقُ : خالی۔ کہا جاتا ہے "مَكَانٌ صَلَقٌ"
 بَلَقٌ وَصَلَقٌ بَلَقٌ " خالی مکان۔ بَلَقٌ
 وَبَلَقٌ صَلَقٌ وَصَلَقٌ کے لئے تابع
 ہیں۔
 الصَّلَقُ : مرد والا دروازہ۔
 صَلَمٌ : (ان) صَلَمًا وَصَلَمٌ : الشَّيْءُ : جِز
 سے کاٹنا۔ صَلَمَةٌ وَصَلْمَةٌ : جِز سے ٹاک
 کان کاٹ لینا۔
 إِصْطَلَمَةٌ : جِز سے اکھیڑنا۔ کہا جاتا ہے
 "إِصْطَلَمَهُ الذَّهْرُ" یعنی زمانے نے ان کو
 برباد کر دیا۔
 الصَّلَمُ وَالصَّلْمَةُ : مضبوط اور بہادر لوگ۔
 واحد صَلَمٌ .
 الصَّلْمَةُ : خود۔
 الصَّلَامَةُ وَالصَّلَامَةُ وَالصَّلَامَةُ : آدمیوں
 کی جماعت۔ سخاوت میں بہادری میں اور عمر
 میں ایک قسم کے لوگ۔ جِ صَلَامَاتٌ
 صَلَامَاتٌ صَلَامَاتٌ .
 رَجُلٌ أَصْلَمٌ : الأَذْنَيْنِ : وہ شخص جس کے
 دونوں کان کٹے ہوئے ہوں گویا کہ خلقتاً
 ایسے ہی ہیں۔ مَوْتٌ صَلْمَاءٌ جِ صَلْمٌ .
 الصِّلِمُ : تلوار۔ سخت کام۔ مصیبت۔ دن

میں ایک مرتبہ کا کھانا۔ وَقَعَةُ صَلْمَةٌ : جِز مٹا
 دینے والی جنگ۔
 صَلْمَعٌ : مغلَسٌ ہونا الرَّاسُ : مونڈ دینا
 الشَّيْءُ : اکھیڑ دینا۔ چکنا کر دینا۔ کہا جاتا
 ہے "هُوَ صَلْمَعَةٌ قَلْمَعَةٌ" یعنی وہ اور اس
 کے باپ غیر معروف ہیں۔
 إِصْلَهَبٌ : دراز ہونا۔
 الصَّلَهَبُ وَالْمُصْلَهَبُ : لمبا آدمی۔
 الصَّلَهَبُ : بڑا مکان۔
 الصَّلَهَجُ : بڑی چٹان۔ قوی اونٹنی۔
 إِصْلَهَجٌ : سخت ہونا۔
 الصِّلَهَامُ : دلیر۔ شیر۔
 صَلَا يَصْلُو صَلْوًا : فَلَاتًا : پیٹھ کے درمیان
 مارنا۔
 صَلِيْتُ تَصْلِي صَلَاً وَأَصْلْتُ إِصْلَاءً .
 السَّاقَةُ : قرب ولادت کی وجہ سے اونٹنی کے
 ڈبر اور ڈم کے درمیان کا ڈھیلا پڑ جانا۔
 صَلَى صَلَاةً : دعا کرنا۔ نماز پڑھنا۔ اللَّهُ
 عَلَيْهِ : برکت دینا۔ اچھی تعریف کرنا
 تَصْلِيَةٌ : الفَرَسُ : گھوڑ دوڑ میں دوسرے نمبر
 پر ہونا۔ صفت مُصْلِي .
 الصَّلَا : انسان اور چوپایہ کی پیٹھ کا درمیانی
 حصہ۔ جِ صَلَوَاتٌ وَأَصْلَاءُ .
 الصَّلَاةُ وَالصَّلَاةُ : دعا۔ نماز۔ تسبیح
 مِنَ اللَّهِ : رحمت۔ جِ صَلَوَاتٌ .
 المِصْلِي : نماز پڑھنے کی جگہ۔
 صَلَى صَلِيًا : اللَحْمُ : گوشت بھوننا۔ صفت
 مفعول مِصْلِي فَلَاتًا النَّارُ وَفِيهَا
 وَعَلَيْهَا : آگ میں داخل کرنا الرَّجُلُ :
 فریب دینا بَلْصِيدٌ : جال لگانا۔
 صَلَى (س) صَلَى وَصَلَى وَصَلِيًا وَصَلِيًا
 النَّارُ وَبِهَا : آگ کی گرمی برداشت کرنا۔
 آگ میں جلنا الْأَمْرُ وَبِالْأَمْرِ : معاملہ کی
 شدت برداشت کرنا۔
 صَلَى : الغَضَا عَلَى النَّارِ أَوْ بِالنَّارِ : آگ
 دکھلا کر سیدھا کرنا۔ صَلَى وَأَصْلَى يَدُهُ :
 ہاتھ گرم کرنا۔

أَصْلَاهُ. النَّازِ: آگ میں داخل کرنا۔
تَصَلَّى تَصَلِيًّا. النَّازِ وَبِالنَّازِ: آگ کی گرمی برداشت کرنا۔ آگ تاپنا..... عَصَاهُ عَلَيَّ النَّازِ: آگ دکھلانا۔
إِضْطَلَى إِضْطَلَاءً. بِالنَّازِ: آگ تاپنا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانَ لَا يُضْطَلَى بِنَارِهِ" یعنی فلاں ایسا بہادر ہے جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔
الصَّلَاءُ وَالضَّلَى: آگ یا بڑی آگ۔
الصَّلَاةُ وَالضَّلَاءَةُ: پیشانی۔ خوشبو۔
پینے کا پتھر۔ ہر بڑا پتھر جس پر پیسا جائے۔
صَلَّى وَصَلَّى: ایک جنگلی گھاس۔
الصَّلِيَانُ: ایک جنگلی گھاس۔
واحد۔
المِضْلَاءُ وَالْمِضْلَى: جال جو شکار کے لئے لگایا جائے۔
ج مَصَالٌ کہا جاتا ہے "إِنَّ لِلشَّيْطَانِ فِخَاخًا وَمِصَالِي" کہ شیطان کے لئے بہت سے پھندے اور جال ہیں۔
صَمَمٌ (ن) صَمًا. الْقَارُورَةُ: شیشی بند کرنا..... السَّجْرُحُ: زخم کو باندھنا اور لپ لگانا..... عَزَزْتَهُ: پکا ارادہ کرنا۔
صَمٌّ الزَّجْلُ بِحَجَرٍ: پتھر سے مارنا۔
صَمٌّ (س) صَمَمًا وَصَمًا: بہرا ہونا۔
صَمَّتْ أَصَمٌ مَوْتٌ صَمَاءُ ج مَصَمٌّ وَصَمَانٌ. صَمٌّ صَدَاةٌ: اس کی آواز بہری ہوگی یعنی مر گیا ہلاک ہو گیا۔
صَمَمَةٌ: بہرا کر دینا۔ صَمَمٌ عَلَيَّ الْأَمْرُ وَفِيهِ: کرگزرنا اور منع کرنے والی کی بات نہ سنانا..... السَّيْفُ: تلوار کا ہڈی میں گھسنا اور کاٹ دینا۔

صَمَمَهُ الْحَدِيثُ: یاد کرانا۔ صَمَّ الشَّيْءُ: دانت سے کاٹنا۔

أَصَمَّ: بہرا ہونا۔ بہرا کرنا۔ بہرا پانا..... الْقَارُورَةُ: شیشی بند کرنا۔ صَمَّ دُعَاؤُهُ: ایسی قوم کو پکارنا جو ملامت سننے نہ جواب دے۔
أَصَمَّ اللَّهُ صَدَائِي فَلَانَ: اللہ سے ہلاک کر

دے۔
تَصَامٌ. عَنِ الْحَدِيثِ: بہرا ہونا۔
الصِّمُّ: سخت مصیبت۔ شیر۔
الصِّمَّةُ: بہادر شیر۔ مذکر سانپ۔ مادہ سبکی۔
شیشی وغیرہ کی ڈاٹ۔ ج صَمَمٌ۔
الصِّمَمُ: بہرا پن۔ رجل صمم: پختہ ارادہ والا۔
صَمَامٌ: بروزن قِطَامٌ: سخت مصیبت کے لئے عِلْمٌ: کہتے ہیں "صَمِي صَمَامٌ": اسے مصیبت زیادہ ہو۔ "صَمَامٌ صَمَامٌ" یعنی امر۔

الصِّمَامُ. ج أَصِمَّةٌ. الصِّمَامَةُ: شیشی کی ڈاٹ۔
الصِّجِيمُ: ہڈی جس پر عضو کا مدار ہو۔
كُلُّ شَيْءٍ خَالِصٌ..... مِنَ الْحَرِّ أَوْ الْبُرْدِ: سخت گرمی یا سردی۔ کہا جاتا ہے "ذَهَبَ لِي صَبِيمٌ الْحَرِّ": سخت گرمی میں گیا اور یہ واحد اور جمع دونوں کے لئے مستعمل ہے۔ تم کہو گے "زَجَلٌ صَبِيمٌ" و "رَجَالٌ صَبِيمٌ" مَوْتٌ صَبِيمَةٌ: کہا جاتا ہے "هُوَ مِنَ صَبِيمِ الْقَوْمِ" یعنی قوم کا اصل ہے۔

الْأَصَمُّ: ٹھوس۔ کہا جاتا ہے "حَجَرٌ أَصَمٌّ وَصَخْرَةٌ صَمَاءٌ" یعنی ٹھوس پتھر۔ رُمُحٌ أَصَمٌّ: مضبوط نیزہ۔ رَجُلٌ أَصَمٌّ: جس سے کسی خیر کی امید نہ ہو اور اپنی خواہشات سے باز نہ رکھا جا سکے۔
ذَهَرَ أَصَمٌ زَمَانَةً: گویا کہ اس سے شکایت کی جاتی ہے اور وہ سنتا نہیں۔
عرب رجب کے مہینے کو شہرِ أَصَمِّ: کہتے تھے اس وجہ سے کہ اس مہینے میں نہ تو قتل و قتال کی آواز آتی تھی اور نہ ہتھیاروں کی جھنکار سنائی دیتی تھی اور نہ فریادی شور مچاتا تھا۔

الصَّمَاءُ: مَوْتٌ أَصَمٌّ: ٹھوس زمین۔ سخت مصیبت۔ ج مَصَمٌّ۔
الصَّمَانَةُ وَالصَّمَانُ: ہر پتھر کی سخت زمین۔
المُصَيِّمُ: کرگزرنے والا۔ السَّيْفُ: ہڈی میں گھس جانے والی تلوار۔

صَمًا: (ف) صَمًا. عَلَيْنَهُمْ: برآمد ہونا۔ ظاہر ہونا..... فَلَانَا عَلَيَّ الْأَمْرِ: برا بھانتہ کرنا۔
صَمَّتْ (ن) صَمَمًا وَصَمُوتًا وَصَمَانًا: خاموش رہنا۔
صَمَّتْ وَأَصَمَّتْ: خاموش رہنا۔ صَمَمَتْهُ وَأَصَمَّتْ: خاموش کرنا۔ وَأَصَمَّتِ الْعَلِيلُ: بیمار کی زبان بند ہو جانا۔ صَمَّتِ السَّرَاةُ وَذَلَفْنَا عَمْرَتِ كَأَنَّهُ يَبْحَثُ بِنُجْمٍ كَبْرًا: کچھ کھلانا۔

الصَّمَاتُ: خاموشی۔ پیاس کی سرعت۔ کہا جاتا ہے "رَمَاهُ بِصَمَاتِهِ وَسُكَاتِهِ" یعنی چپ کرادیا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ عَلَيَّ صَمَاتِ الْأَمْرِ أَوْ بِصَمَاتِهِ": وہ کام کرنے کو مستعد دیتا ہے۔ "نَهَاتَ مِنَ الْقَوْمِ عَلَيَّ صَمَاتٌ" قوم سے قریب ہوا۔

الصَّمْنَةُ وَالصَّمْنَةُ: کھانا یا مٹھائی وغیرہ جس سے بچے کو بہلایا جائے اور چپ کرایا جائے۔

الصَّمَاتُ: قا۔ خاموش۔ گاڑھا دودھ..... مِنَ الْمَالِ: چاندی سونا (مال تاطلق حیوانات ہیں) کہا جاتا ہے "مَالَهُ نَاطِقٌ وَلَا صَمَاتٌ" یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔
الصَّبِيْتُ وَالصَّمُوتُ: بہت خاموش رہنے والا۔

الصَّمُوتُ: بھاری زرہ۔ شہدے بھرا ہوا۔
جھمٹ۔ صَرَبَةٌ صَمُوتٌ: پار ہو جانے والی ضرب۔
المُصْمِتُ: کہا جاتا ہے "إِنَّهُ يَشْكُو إِلَى غَيْرِ مُصْمِتٍ" یعنی ایسے شخص سے شکایت کر رہا ہے جو اس کی پرواہ نہیں کرتا۔

المُصَمَّتُ: ٹھوس۔ بَابٌ مُصَمَّتٌ: بند دروازہ جس کے بند ہونے کی جگہ معلوم نہ ہو۔
حَائِطٌ مُصَمَّتٌ: جس دیوار میں فرج نہ ہو۔
فَرَسٌ مُصَمَّتٌ: جس گھوڑے کے رنگ میں کوئی دوسرا رنگ نہ ہو۔
أَنْبَاءٌ مُصَمَّتٌ: جس پر چاندی کی قلمی نہ ہو۔
أَلْفٌ

مُضْمَتٌ وَمُضْمَتٌ: کامل ایک ہزار۔
صَمَحَةٌ: (ف ض) صَمَحًا الخَرُّ: گرمی کا دماغ کو پگھلا دینا..... هُـ بِالسُّوْطِ : کوڑے سے مارنا۔ صَمَحَ فَلَانًا: سوال کرنے میں سختی کرنا۔

الصُّمَّاحُ: بدبودار پسینہ۔ داغ لگانا۔ چربی جو پگھلا کر پیر کی پیشین میں لگائی جائے۔
الاضْمَحُ: بہادروں کے سر پر ضرب لگانے والا۔

يَوْمٌ صَامِعٌ وَصُمُوخٌ: سخت گرم دن۔
خَافِرٌ صُمُوخٌ: سخت کھر۔

الصِّمْحَاءُ وَالصِّمْحَاءَةُ: سخت زمین۔
صَمَخَهُ (ن) صَمَخًا: کان کے سوراخ پر مارنا۔ صَمَخَ أَنْفَهُ: ناک توڑ دینا۔

الصِّمْحُ: خشک چیز جو بکریوں کے تھن کے سوراخ میں بچھرنے کے وقت ہوتی ہے کہ اس کے نکل جانے کے بعد دودھ اچھی طرح آنے لگتا ہے۔ بار کا نشان جو چہرے پر پڑ جائے۔

الصِّمْحَاخُ: کان کا سوراخ۔ ج صُمُخٌ وَأَصْمِيخَةٌ.

الْأَصْمُوخُ: کان کا سوراخ۔ کہتے ہیں "ضرب الله على صمأخه" یعنی اللہ سے سلا دے۔

الصمأخ: کم پانی کا کنواں۔ ج صُمُخٌ. إِصْمَخَهُ: غصے سے پھول جانا۔

صَمَدٌ (ن ش) صَمَدًا وَصَمَدًا: فَلَانًا وَلَهُ وَالْيَهِ: تصد کرنا۔ ارادہ کرنا۔ کہا جاتا ہے صَمَدٌ صَمَدٌ هَذَا الْأَمْرُ: یعنی اس امر پر اعتماد کیا..... هُـ بِالْعَصَا: لاشی سے مارنا۔

صَمَدَتِ الشَّمْسُ وَجَهَةً: آفتاب کا چہرے کو جھلس دینا۔ صَمَدَ الْقَارُوْرَةَ: شیشی میں ڈال لگایا۔ صَمَدَ الرَّجُلِ رَأْسَهُ: مرد کا اپنے سر پر بند لیٹنا۔

صَامِدَةٌ صَمَادًا وَمُصَامِدَةٌ: تلوار بازی کرنا۔

أَصَمَدٌ: إِلَيْهِ الْأَمْرُ: سہارا دینا۔

تَصَمَّدَ: لَهُ بِالْعَصَا: لاشی سے مارنا۔
الصَّمَدُ: بلند جگہ۔ ج أَصْمَادٌ وَصِمَادٌ.

الصَّمَدُ: سردار جس کے بغیر امور پورے نہ ہوں۔ ٹھوس۔ ایسا شخص جو لڑائی میں بھوکا پیاسا نہ ہو۔ ہمیشہ رہنے والا۔ بلند اور صمد: اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے یعنی وہ ذات جس کے سب محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔

الصَّمَدَةُ: عیسائیوں کے نزدیک قربان مقدس کے پاس رکھا ہوا درمال۔

الصَّمَدَةُ وَالصَّمَدَةُ: بلند گڑی ہوئی چٹان۔
الصِمَادُ: شیشی کی ڈال۔

الصِمَادُ وَالصِمَادَةُ: گڑی کے علاوہ سر پر لیٹنے کا کپڑا۔

المُصَمَّدُ وَالْمُصْمُودُ: تصد کیا ہوا۔ جس کا تصد کیا جائے۔

صَمَدَخٌ: التَّيْمُومُ: دن کا بہت گرم ہونا۔
الصَّمَادِجُ وَالصَّمَادِجِيُّ: بہت سخت چیز کا خالص۔

الصَّمَادِجُ: کھلا ہوا راستہ۔ شیر۔
الصَّمِيدِجُ: بہت سخت گرم دن۔

صَمَرٌ (ن) صَمْرًا وَصُمُورًا: بخیل ہونا۔ ماء: پانی کا آہستہ آہستہ ٹپپنی زمین سے ہموار زمین کی طرف بہنا۔

صَمَرٌ (ش) صَمْرًا وَصِمْرٌ (س) صَمْرًا: اللَّبَنُ: کھٹا ہونا۔

أَصْمَرَ: اللَّبَنُ: زیادہ کھٹا ہونا.....
وَصَمْرٌ الرَّجُلُ: بخل کرنا۔ غروب آفتاب کے وقت آنا۔ أَصْمَرَ وَصَمْرُ الْمَتَاعِ: جمع کرنا۔

الصَّمْرُ: تازہ مٹک کی خوشبو.....
وَالصَّمْرُ: بدبو۔

الصَّمْرُ: آہستہ آہستہ پانی پینے والے کے جمع ہونے کی جگہ۔

الصَّمْرُ: برتن وغیرہ کا کنارہ۔ کہا جاتا ہے "مَلَأَ الْكَنَاسَ إِلَى أَصْمَارِهَا أَوْ أَصْبَارِهَا" یعنی پیالے کو اس کے کناروں تک بھر دیا۔

الصَّمْرُ: برتن وغیرہ کا کنارہ۔ کہا جاتا ہے "مَلَأَ الْكَنَاسَ إِلَى أَصْمَارِهَا أَوْ أَصْبَارِهَا" یعنی پیالے کو اس کے کناروں تک بھر دیا۔

الصَّمْرُ: برتن وغیرہ کا کنارہ۔ کہا جاتا ہے "مَلَأَ الْكَنَاسَ إِلَى أَصْمَارِهَا أَوْ أَصْبَارِهَا" یعنی پیالے کو اس کے کناروں تک بھر دیا۔

الصَّمْرُ: بدبودار۔ کہا جاتا ہے "تَبَدَّى مِنَ السَّمَكِ صَمْرَةً" یعنی میرا ہاتھ پھل کی وجہ سے بدبودار ہے۔

الصَّمِيرُ: بخیل۔ ج صَامِيرُونَ.
الصَّمِيرُ: دبا پٹلا خشک آدمی جس سے پسینہ کی بدبو پھیلے۔

الصَّمِيرُ: آفتاب کے غروب ہونے کا وقت۔

الصمررة والصامورة: کھٹا دودھ۔
صَمُصٌ صَمُصَةٌ: فِي الْأَمْرِ أَوِ السَّيْرِ: استقلال سے کام جاری رکھنا۔ صَمُصَتِ الْفَنْدُةُ: سبکی کا آواز کرنا۔

الصَّمُصَامُ وَالصَّمُصَامَةُ: تلوار جس کی دھار نہ مڑے۔

الصَّمِصِمُ وَالصَّمَاصِمُ وَالصَّمَاصِمَةُ مِنَ النَّخِيلِ: جھلنے میں ثابت قدم گھوڑا۔

الصَّمِصِمُ: چھوٹا موٹا۔
الصَّمُصِمُ: بہت زیادہ بخیل۔

الصَّمُصِمَةُ وَالصَّمِصِمَةُ: قوم میں اچھا آدمی۔ لوگوں کی جماعت۔ ج صَمِصِمٌ وَصَمَاصِمٌ.

صَمْعَةٌ: (ف) صَمْعًا: بِالْعَصَا أَوْ السَّيْفِ: لاشی یا تلوار سے مارنا..... الطَّبِيُّ: زمین کے اندر چل دینا۔

صَمِعَ (س) صَمْعًا: لا پر والی سے گزر جانا۔ فِي الْكَلَامِ: غلطی کرنا۔ صَمِعَتْ أُذُنُهُ: کان کا چھوٹا ہونا اور سر سے چپٹا ہوا ہونا۔

صَمِعَتْ أَمْعَتْ مَوْنَتْ صَمْعًا: ج صَمْعٌ. صَمْعٌ: عَلَيَّ رَأْيُهُ: پختہ ارادہ کرنا۔

إِنصَمَعُ: فِي غَضَبِهِ: غضب پر قائم رہنا۔
الاضْمَعُ: چھوٹے کان والا۔ مَوْنَتْ صَمْعًا: ج صَمْعٌ..... اوپر چڑھنے والا۔

تلوار کا طع: تیز ذہن والا۔ روئیدگی کہ جس کا پھل ابھی غلاف سے نہ نکلا ہو۔ عمدہ پر۔

ج صَمْعَانُ. أَصْمَعَانُ: قلب ذکی و پختہ رائے۔

الصممع: ذکی القلب۔ تیز فہم والا۔ بہادر۔

الصممع: ذکی القلب۔ تیز فہم والا۔ بہادر۔

الصممع: ذکی القلب۔ تیز فہم والا۔ بہادر۔

الصممع: ذکی القلب۔ تیز فہم والا۔ بہادر۔

الصُّبُورُ وَالصُّبُورَةُ: درخت خرما جس کا پھل کم اور تنہ پتلا ہو۔ درخت خرما جو دوسرے درخت خرما کی جڑ سے بغیر بوئے ہوئے نکلے۔ الصُّبُورُ: وہ شخص جو کزور بغیر والی وارث کے ہو۔ کمینہ۔ چھوٹا بچہ۔ مصیبت۔ ٹھنڈی ہوا۔ گرم ہوا۔ حوض کی تالی جس سے پانی نکلے۔ ج صنا بئر۔ الصُّبْرُ: ٹھنڈی ہوا۔ گرم ہوا۔ جاڑے کے سخت سات دنوں میں سے دوسرا دن۔ ج صنا بئر کہا جاتا ہے لَيْلَةُ صُبْرٍ وَصَبْرٍ: بہت ٹھنڈی یا گرم رات۔ صنا بئر: الشتاء: جاڑے کی شدت۔ الصُّبُورُ: ایک درخت ہے جس کے پتے ہمیشہ سبز رہتے ہیں اور اس کے پتے بلندی پر ہوتے ہیں۔ الصُّبُورِيُّ: جو صنوبر کے پھل کی شکل کا گول لمبا مخروطی ہو۔ الصُّبُورِيَا: لمبے اور سبز درختوں کی تسمیہ: جسے صنوبر سرد سرد وغیرہ۔ الصُّبُوجَةُ: ایک زرعی دانہ جو کہ بندھا جاپان اور چین میں بویا جاتا ہے۔ گلانی یا سفید پھولوں والا اس کے آٹے سے نشہ دلانے والا مرکب بنایا جاتا ہے۔ صُنْبَعٌ: البَحِيلُ: سوال کے وقت منقبض ہوتا۔ أَصْنَتْ: الشَّيْءُ: مضبوط کرنا۔ الصُّنُوتُ: شیشی کا غلاف۔ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی زئیل۔ ج صنا بئر۔ صُنْبَجُهُ: (ن) صُنُوجًا: بالقضاء: لا شئ منہ سے مارنا۔ صُنَجَ النَّاسِ: ہر ایک کو اس کی اصل کی طرف لوٹانا۔ صُنَجَ تَصْنِيْعًا: بہ: پچھاڑ دینا۔ عوام کہتے ہیں "صُنْحَحْتُ رَقَبَتَهُ" یعنی گردن کے اعصاب اکڑ گئے اور صُنْحَحْتُ شَخْبَتَہ ہے۔ الصُّنْجُ: جانجھ۔ مجیرا۔ جنگ۔ ج صُنُوجُ صُنْجُ الحِجْنِ: جن کی آواز۔ کہا جاتا ہے ما

المُضْمَلُ: غصہ کی وجہ سے پھولنے والا۔ الْمُضْمِنَةُ: مصیبت۔ صَمْنِيٌّ يَصْمِي صَمِيَانًا: الزُّجْلُ: پلٹنا۔ کودنا۔ جلدی کرنا۔ صَمْنِيٌّ يَصْمِي صَمِيَانًا: الاْمْرُ فَلَائِنَا: سر پر آ پڑنا کہا جاتا ہے "مَا صَمَّاكَ عَلَيَّ" یعنی کس چیز نے تم کو اس پر برا سمجھتے کیا..... الصَّيْدُ: شکار کا سامنے کرنا۔ أَصْمَى إِصْمَاءً: الزُّجْلُ: جلدی کرنا۔ الصَّيْدُ: تیر مارنا اور شکار کا سامنے ہی ٹھنڈا ہونا..... الفَرَسُ عَلِي لِحَامِهِ: لگام کو کاٹنا اور چلنا۔ اصْمَى قَيْبَتَهُ: موت کا مزہ چکھنا۔ اِنْمَى اِنْمَاءً: عَلَيَّ: گرنا..... الطَّائِرُ: ٹوٹ پڑنا۔ الصَّمِيَانُ: بہادر جس کا حملہ خالی نہ جائے۔ ج صَمِيَانُ. اصْنُ: گندہ بغل ہونا۔ غرور سے ناک پھیلا نا..... الفَاءُ: فاسد ہونا..... اللَّحْمُ: بدبودار ہونا..... عَلَيَّ الاْمْرُ: اصرار کرنا..... الزُّجْلُ: خاموش ہونا۔ غیظ و غضب سے بھر جانا۔ الصِّنُّ: ٹوکری۔ روٹی رکھنے کی ڈھکنے دار ٹوکری۔ زئیل۔ ج صِنَانُ. الصِّنُّ: اُونٹ کا پیشاب۔ زُبر نامی ایک جانور کا پیشاب۔ جاڑے کے سخت دنوں میں سے پہلا دن۔ الصَّنَانُ: گندہ بغلی۔ بدبو۔ ج اصْنَةُ. الصْنَةُ: گندہ بغلی۔ بدبو۔ الصَّنَانُ: بہادر۔ الاَصْنُ: غفلت برتنے والا۔ الصَّنَابُ وَالصَّنَابَةُ: لمسی پیٹھ اور پیٹ والا۔ چٹنی جو رائی اور زیتون کے تیل سے بنائی جاتی ہے۔ الصَّنَابِيْسِيُّ: سفیدی کے ساتھ زرعی آئیز سرخ رنگ والا۔ صُنْبَرْتُ صُنْبِرَةً: النُّخْلَةُ: درخت خرما کا کم پھل اور پتلے تنے والا ہوتا۔ الصُّبْرُ: ہر چیز کا باریک و کزور۔

صَمْعٌ: گوند لگانا۔ اَصْمَعُ: الشَّدْقُ: باجھوں کا زیادہ تھوک والی ہونا۔ اَصْمَغَتِ الشَّجَرَةَ: درخت کا گوند والا ہونا۔ اِسْتَصْمَعُ الشَّجَرَةَ: گوند نکالنا..... فَلَانَ زخم ہونا۔ الصَّمْعُ وَالصَّمْعُ: گوند۔ واحد صَمْعَةٌ وَصَمْعَةٌ. ج صَمُوعٌ. الصَّمْعُ وَالصَّمْعَةُ: تھن کے اندر ولادت کے بعد کوئی مجدد چیز ہوتی ہے۔ الصَّمْعَانُ: وہ شخص جس کے کان ناک منہ سے مادہ نکلے جس طرح درخت سے گوند نکلتا ہے۔ الصَّمْعَانُ وَالصَّمْعَتَانُ وَالصَّمْعَانِ وَالصَّمْعَانِ: باجھیں۔ اَصْمَقُ: البَابُ: دروازہ بند کرنا..... اللِّينُ او السَّمَاءُ: متغیر ہونا۔ بگڑ جانا..... الزُّجْلُ: خمیہ ہونا۔ الصَّمَقَةُ: بگڑا ہوا دودھ۔ صَمَقَرٌ وَاصْمَقَرٌ: اللِّينُ: بہت کھٹا ہونا۔ اِصْمَقَرَتِ الشَّمْسُ: بہت گرم ہونا۔ اِصْمَاكُ: الزُّجْلُ: غضبناک ہونا..... اللِّينُ: جم کر پھیر جیسا ہونا..... الاَرْضُ: بارش سے تر ہونا..... الجُرْحُ: زخم کا پھولنا۔ الصَّمْكُوكُ وَالصَّمْكِيكُ: شرفسادی طرف سبت کرنے والا جاہل۔ سخت مضبوط۔ بہت سخت دل۔ لمیس دار چیز۔ صَمَلٌ (ن) صَمَلًا وَصُمُولًا: الشَّيْءُ: سخت ہونا۔ خشک ہونا..... الزُّجْلُ: عَنِ الطَّعَامِ: رک جانا۔ صَمَلَهُ بِالْقَضَاءِ: لا شئ منہ سے مارنا۔ اَصْمَلَهُ: الصِّيَامُ: روزے کا دہلا کر دینا۔ اِصْمَالٌ: سخت ہونا..... النَّبَاتُ: نباتات کا گھنا ہونا۔ الصُّمْلُ: مرد قوی جش۔ الصَّمِيلُ وَالصَّمِيْلُ: خشک۔

أَفْرَىٰ أَيْ صَنِّجٌ هُوَ "میں نہیں جانتا کہ وہ کون آدی ہے۔"
 الصَّنَاجُ وَالصَّنَاجَةُ: جمائحد والا۔ صَنَّاجَةُ العَرَبِ: ایشی قس شاعر جاہلیت کا لقب۔
 صَنَّاجَةُ الجَيْشِ: طبل۔
 الصَّنِيدُ: مِنَ الرِّيحِ أَوْ البُرْدِ: تیز۔ من الغَيْثِ: بڑی ہوند کی بارش (.....)
 والصَّنِيدُ: سردار۔ بہادر۔ رَج صَنَّائِدٌ: الصَّنَائِدُ: مہبتیں۔ لشکر کی جماعت۔ کہا جاتا ہے "يَوْمَ حَامِي الصَّنِيدُ" او الصَّنَائِدُ "یعنی سخت گرم دن۔"
 الصَّنْدُوقُ: بکس۔ رَج صَنَّائِقُ: الصَّنْدَلُ: ایک خوشبودار لکڑی کا نام۔
 الصَّنَائِلُ: بڑے سرد والا۔
 الصَّنْدَلَاتِي: عطار۔ صِيدَلَاتِي: میں ایک لغت ہے۔ رَج صَنَّائِلَةٌ: الصَّنَارُ وَالصَّنَارُ: چنار کا درخت۔ واحد صَنَارَةٌ وَصَنَارَةٌ: الصَّنَارَةُ: نیکے کے سرے پر منڈھا ہوا ہوا۔ صَنَارَةُ الصَّيَادِ: چھیل وغیرہ کے شکار کرنے کا کاٹنا۔ ہنسی۔ رَج صَنَّائِرُ کہا جاتا ہے "رَجْلٌ صَنَارَةٌ وَصَنَارَةٌ: یعنی بدخلق مرد۔ رَج صَنَّائِرُ: الصَّنُورُ: بخیل۔ بدخلق۔
 صَنَّعَ: (ف) صَنَّعًا وَصَنَّعًا: الشَّيْءُ: بنانا..... إِلَيْهِ مَعْرُوفًا: احسان کرنا..... بِهِ صَنَّعًا قَبِيحًا: برائی کرنا (.....) صَنَّعًا وَصَنَّعَةً: الفَرَسُ: اچھی تربیت کرنا۔
 صَنَّعَ الشَّيْءُ: مزین کرنا۔ کاریگری سے خوبصورت بنانا۔
 أَصَنَّعَ: الرِّجْلُ: نیکھنا۔ مضبوطی سے کام کرنا۔ دوسرے کو مدد دینا۔
 صَنَّعَةً مَّصْنَعَةً: نرمی کرنا۔ مدارات کرنا۔ رشوت دینا۔ مثل مشہور ہے "مِنْ صَنَّاعٍ بِالْمَالِ لَمْ يَخْتَشِمِ مِنْ طَلَبِ الْحَاجَةِ" جو شخص رشوت میں مال خرچ کرے وہ حاجت کے طلب کرنے سے منقبض نہیں ہو سکتا..... هُ

عَنِ الشَّيْءِ: فریب دینا..... الرِّجْلُ: ریشہ بننا۔
 تَصَنَّعَ: تزئین کا تکلیف کرنا۔ بناوٹ کرنا۔
 اصْطَنَّعَ: شینا: تیار کرنے کا حکم دینا.....
 عِنْدَهُ صَنِيعَةٌ: احسان کرنا..... ه: ادب سکھانا..... ه لِنَفْسِهِ: اپنے لئے اختیار کرنا.....
 فَلَانٌ: خیر آئی کھانا تیار کرنا..... الرِّزْقُ: پیش کرنا۔
 اصْطَنَّعَهُ: الشَّيْءُ: کسی چیز کو بنانے کے لئے کہنا۔
 الصَّنْعُ: مہم۔ ایک چھوٹا سا جانور۔ رَجْلٌ صَنَّعُ اليَدَيْنِ: کاریگری میں ماہر۔ رَج رَجَالٌ صَنَّعُونَ:۔
 الصَّنْعُ: مہم۔ عمل۔ احسان۔ رِزْقُ: الصَّنْعُ: بنا ہوا۔ کپڑا۔ عمامہ۔ حوض۔ قلعہ۔ گوشت بھوننے کی تیخ۔ درزی۔ رَج اصْنَاعُ رَجْلٌ صَنَّعُ اليَدَيْنِ: کاریگری میں ماہر۔ رَج رَجَالٌ صَنَّعُونَ:۔
 الصَّنْعَةُ: پیشہ کاری گری۔ صَنَّعَةُ الفَرَسِ: گھوڑے کے سدھانے کا فن۔
 الصَّنَاعُ: لکڑی جو پانی کو کچھ دیر روکنے کے لئے نالی میں لگادی جائے۔
 رَجُلٌ صَنَّاعُ اليَدَيْنِ وَصَنَّعُ اليَدَيْنِ: کاریگری میں ماہر اور ایسا ایسا امرأَةٌ صَنَّاعُ اليَدَيْنِ وامرأتان صَنَّاعان اویسوة صَنَّعُ اور شاعر و بلیغ کے لئے کہا جاتا ہے۔ هُوَ صَنَّعُ اللِّسَانِ وَلَهُ لِسَانٌ صَنَّعٌ: الصَّنَاعَةُ وَالصَّنَاعَةُ: پیشہ۔ وہ علم جو مزاوت عمل سے حاصل ہے جیسے درزی کا کام جو لہ گری وغیرہ۔ وہ علم جس کا تعلق کیفیت عمل سے ہو جیسے منطق۔
 اور کہا گیا ہے کہ صَنَّاعَةُ بِالْفَتْحِ: استعمال محسوسات میں ہوتا ہے اور صَنَّاعَةُ بِالْكَسْرِ: کا معانی میں۔ رَج صَنَّاعَاتٍ وَصَنَّاعٍ: الصَّنَاعِي: مصنوعی۔ طبعی کا مقابل۔
 الصَّنِيعُ: مہم۔ بنایا ہوا۔ میقل شدہ تلوار۔ تیر۔ صاف ستھرا کپڑا۔ سدھا ہوا گھوڑا۔

کھانا۔ احسان۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ صَنِيعِي" یعنی فلاں میرا تربیت یافتہ ہے "سَنَيْفٌ صَنِيعٌ" جس کی جلاہ کی دیکھ بھال کی جائے۔ "رَجْلٌ صَنِيعُ اليَدَيْنِ" کاریگری میں ماہر۔ مؤنث "صَنِيعَةُ اليَدَيْنِ" قَوْمٌ صَنِيعُ اليَدَيْ وَصَنِيعُ اليَدَيْ وَأَصْنَاعُ اليَدَيْ: کاریگری میں ماہرین۔
 الصَّنِيعَةُ: احسان۔ رَج صَنَّاعٌ کہا جاتا ہے "هُوَ صَنِيعِي" میرا تربیت یافتہ ہے۔
 الصَّنَاعُ: فا۔ کاریگر۔ رَج صَنَّاعٌ کہا جاتا ہے "امْرَأَةٌ صَائِعَةُ اليَدَيْنِ" یعنی کاریگری میں ماہر عورت۔
 صَنَّعَاءُ: موجودہ بین کا دار الحکومت۔ نسبت کرنے میں صَنَّعَانِي اور صَنَّعَانِي کہا جاتا ہے۔
 الصَّنَاعَةُ: لکڑی جو پانی کو روکنے کے لئے نالی میں لگادی جائے۔
 المَصْنَعَةُ وَالْمَصْنَعَةُ وَالْمَصْنَعُ: حوض جس میں بارش کا پانی جمع کیا جائے۔ رَج مَصْنَاعِ المَصْنَاعِ: گاؤں۔ قلعہ۔ محلات۔ المَصْنَعَةُ: کھانے کی دعوت۔ کہا جاتا ہے "كُنَّا فِي مَصْنَعَةِ فَلَانٍ" ہم فلاں کے یہاں دعوت میں تھے۔ مقام شہد کی کھیلوں کے لئے جو آبادی سے علیحدہ بنایا جائے۔
 صَنَّفَ: الشَّيْءُ: قسم قسم بنانا اور بعض کو بعض سے جدا کرنا..... الكِتَابُ: کتاب تصنیف و تالیف کرنا..... الشَّجَرُ: پتے لگانا..... الثَّمَرُ: بھجور کا ادھ کچرا ہونا۔
 تَصَنَّفَتِ: الشَّجَرُ أَوِ النَّبَاتُ: پتے لگانا۔ مختلف قسمیں ہونا۔ تصنف الشَّفَّةُ: ہونٹ کا چھل جانا۔ تصنف السَّاقُ: پنڈلی کا پھٹ جانا۔
 الصَّنْفُ: صفت۔ کہا جاتا ہے "صَنَّفَهُ كَذَا" صَنَّفَ الثَّوْبُ: کپڑے کا کنارہ۔
 الصَّنْفُ وَالصَّنْفُ: نوع۔ قسم۔ کہا جاتا ہے

”عِنْدَهُ صِنْفٌ مِنَ الْأَمْتِغَةِ“ یعنی اس کے پاس ایک قسم کا سامان ہے۔ جِ أَصْنَافٍ وَضُوفٍ.

الْأَصْنَافُ: شتر مرغ جس کی ٹانگیں چھلی ہوئی ہوں۔

الضَّافِرُ: ہر چیز کا خالص۔ کہا جاتا ہے ”وَلَدٌ صَنَافِرَةٌ“ یعنی جس کا باپ معلوم نہ ہو۔

صَبَقَ (س) صَنَقًا. جَسَدُهُ أَوْ بَطْنُهُ: تیز بد بودار ہونا۔ صفت صَبِقٌ.

أَصْنَقَ. عَلَيَّ: اصرار کرنا..... فَنِي مَالِهِ: اچھی طرح سے گل کرنا..... الرَّجُلُ الْعَرُوفُ:

پینہ کا بد بودار کر دینا۔ الصَّنِقُ: بھس۔ لُغْلُغٌ كِي تَبْرُ بَدِيدٍ:

الصَّنِقُ: بد بودار۔ وَرَجُلٌ صَبِقٌ: بھاری بھر کم مرد۔

الصَّاقِقُ: بہت سخت بد بودار۔ جِ صَنَقَةٌ. الْمُضْنِقُ وَالْمِضْنَقُ: اونٹوں کی اچھی

خدمت کرنے والا۔ صَنِمٌ (س) صَنَمًا. الْعَيْدُ: قوی ہونا۔

صَفْتٌ صَنِيمٌ مَوْثٌ صَنِيمَةٌ: جِ صَنِيمَاتٌ..... الرَّائِحَةُ: خراب ہونا۔

صَنَمٌ: آواز دینا۔ چلانا۔ تصویر بنانا۔ الصَّنَمُ: بُت۔ جِ أَصْنَامٌ.

الصَّنَمَةُ: جانور کے پر کا قلم۔ مصیبت۔ أَصْنَى إِصْنَاءً أَوْ تَصْنَى وَتَصْنِيًا: حرم کی

وجہ سے چولہے کے پاس بیٹھ کر کباب بنانا اور گوشت بھوننا یہاں تک کہ راکھ وغیرہ لگ جائے۔ اصْنَى النَّخْلُ: درخت خرما کی ایک

جڑ سے دو درخت کا ہونا۔ الصَّنَاءُ وَالصَّنَى: راکھ۔

الصَّنَوُ: دو پہاڑوں کے درمیان گہرائی۔ جس میں تھوڑا پانی ہے۔ جِ صَنَوٌ.

الصَّنَوُ وَالصَّنَوُ: حقیقی بھائی۔ بیٹا۔ بچا۔ مَوْثٌ صَنَوَةٌ وَصَنَوَةٌ: جِ أَصْنَاءٌ

وَصَنَوَانٌ: ایک جڑ سے دو یا دو سے زیادہ درخت خرما نکلیں تو ہر ایک کو ان میں سے

”صَنَوُ يَأْصَنُو“ کہا جاتا ہے شترِ صَنَوَانٌ

وَصِنَانٌ: مثلث صاد کے ساتھ اور جِ صِنَوَانٌ: کہا جاتا ہے ”رُكَيْتَانُ صِنَوَانٌ“ یعنی پاس والے کنوئیں یا جو ایک ہی چشمہ سے جاری ہوں۔

الصَّلْوَةُ وَالصَّلْوَةُ: پودہ۔ درخت کا قلم۔ الصَّانِي: ہمیشہ خدمت کرنے والا۔

الصَّنَايَةُ: کل۔ کہا جاتا ہے ”أَخَذَ بِصَنَائِيهِ“ یعنی کل لے لیا۔

صَه: اسم فاعل ہے بمعنی خاموش رہ اور یہی لفظ مَوْثٌ و مذکر کے لئے اور جمع میں بھی

استعمال ہوتا ہے اور صَه: تئوین کے ساتھ بولا جاتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی

وقت میں خاموش رہو۔ صَهَ الْقَوْمُ: ڈانٹا۔

صَهَبَ: (س) صَهَبًا وَصَهَبَةً وَصَهْوَبَةً وَاضْهَبَ وَاضْهَابًا. الشَّعْرُ: بالوں کا سرخ ہونا یا سرخ سفید ہونا۔ صفت أَضْهَبٌ.

الصَّهَابُ: ایک مقام کا نام ہے جس کی طرف اُونٹ منسوب ہوتے تھے۔

الصَّهَابِيُّ: مِنَ الْجَمَالِ: جو موضوع صہاب کی طرف منسوب ہوں۔ جو بہت

زیادہ سفید نہ ہو زیادہ جو کم نہ ہو۔ سخت اور اسی معنی میں ہے ”الْمَوْثُ الصَّهَابِيُّ“ یعنی

سخت قسم کی موت۔ الصَّهْبُ: سخت گرمی۔ گرم دن۔ لمبا آدمی۔

سخت پتھر۔ ہموار زمین۔ دھوپ کی وجہ سے ایسی گرم زمین کہ جس پر گوشت بھن جائے۔

جِ صِهَابٌ. الْأَصْهَبُ: سفیدی سرخی مائل۔ غنڈا دن۔

شیر۔ أَضْهَبُ الْبَيْتَالِ: دشمن۔ مَوْثٌ صَهْبَاءٌ جِ صَهْبٌ.

الصَّهْبَاءُ: شراب۔ الْمُصْهَبُ: گوشت چربی ملا ہوا۔ گوشت کم

بھنا ہوا۔ الصَّهْبَانِيَّةُ: نڈی۔ اونٹیاں جو صہاب نامی

اُونٹ کی جانب منسوب ہیں۔ صَهْدَتُهُ (ف) صَهْدًا. الشَّمْسُ: تیز آواز۔

آفتاب کا جھلنا۔

الصَّهْدَانُ: گرمی کی شدت۔

الصَّهْيُودُ وَالصَّهْيُودُ: گرمی کی شدت۔

بیا بان بے آب و گیاہ۔ متحرک سراب۔ عِزَّ صَهْيُودًا: عزت بلند۔

الصَّهْيُودُ: تن و توش والا۔

صَهْرٌ (ف) صَهْرًا. الشَّمْسِيُّ: پگھلانا۔ صَهْرَتُهُ الشَّمْسِيُّ: آفتاب کا گرم

کر دینا۔ صَهْرُ الشَّمْسِيِّ: پگھلی ہوئی چربی ملنا..... الخُبْرُ: پگھلی ہوئی چربی کو ساکن بنانا۔

صفت مفعول صَهْرٌ وَمَصْهُورٌ..... فَلَانًا بِالسَّمِينِ: سخت سخت قسم پگھلانا..... الشَّمْسِيُّ: قریب کرنا۔

صَاهَرٌ مُضَاهِرَةٌ. الْقَوْمُ وَفِي الْقَوْمِ..... أَصْهَرَ. بِهِمْ وَاللَّيْمُ وَفِيهِمْ: داماد بننا۔

سربننا۔ أَصْهَرَ الْجَيْشَ لِلْجَيْشِ: بعض لشکر کا بعض سے قریب ہونا۔ أَصْهَرَةٌ:

قریب کرنا۔ انْصَهَرَ. الشَّمْسِيُّ: پگھلنا۔

إِصْطَهَرَ. الشَّمْسِيُّ: پگھلانا..... وَإِصْهَارٌ السَّجْرَانَاءُ: گرگٹ کی بیٹھہ کا سورج کی گرمی سے چمکنا۔

الصَّهْرُ: گرم۔ الصَّهْرُ: قرابت۔ قبر۔ داماد یا بہوئی۔ جِ

أَصْهَارٌ مَوْثٌ صَهْرَةٌ. الصَّهْرَاءُ: جو پگھلایا جائے۔ چربی کا ٹکڑا۔

بُذِي كَالْغَوَا۔ الصَّهْرُورُ: پگھلانے والا۔ گوشت بھوننے

والا۔ جِ صَهْرٌ. الصَّهْرِيُّ: پگھلنے والا۔

صَهْرَجٌ. الْغُرْفَةُ: چوند ٹٹی ملا کر لینا۔ الصَّهْرِيَجُ وَالصَّهَارِجُ: پانی کا حوض۔ جِ

صَهَارِيجٌ. وَصَهْرِيٌّ: بھی ایک لغت ہے۔ حَوْضٌ. صَهَارِجٌ: حوض چوند ٹٹی سے لیا

ہوا۔ الصَّهْصَلِيقُ وَالصَّهْصَلِيقُ: مِنَ الْأَصْوَابِ تَبْرُ آوَا:

تیز آواز۔

صَهْفَةٌ بِالْفِقْمِ: حصہ کہہ کے لوگوں کو خاموش کرنا۔

صَهْلٌ (فرض) صَهْلًا وَصَاهِلَةٌ وَصَهَالًا: الفَرَسُ: نہنہانا۔

تَصَاهَلَتْ: الخَيْلُ: ایک دوسرے کی طرف نہنہانا۔

الصَّهْلُ: آواز کی تیزی مع گلا پڑنے کے۔

الصَّاهِلُ: فَا: گھوڑا جیسے ”نابیح“ کہتے کے لئے۔ جِ صَوَاهِلُ: الصَّوَاهِلُ: گھاس وغیرہ میں کمیوں کی جگہناہٹ۔

الصُّهَالُ وَالصُّهَيْلُ: گھوڑے کی آواز۔

الصُّهَالُ: بہت نہنہانے والا۔

صَهَا يَضْهِي صَهْوًا وَصَهِي يَضْهِي.....

صَهِي: زخم کا ہرا ہونا۔ زخم کا رشنا۔ صَهَا الزَّجْلُ: مالدار ہونا۔

صَهِي يَضْهِي صَهِيًا: عمر رسیدہ ہونا۔

صَاهِي: الذابَّة: جانور کی پیٹھ پر سوار ہونا۔

أَصْهِي إِضْهَاءً: الفَرَسُ: گھوڑے کی پیٹھ کا درومند ہونا۔

الصَّهْوَةُ: گھوڑے کی پیٹھ۔ کہا جاتا ہے

”إِسْتَوَى عَلَيَّ صَهْوِيَةُ الْعِزِّ“ یعنی اسے عزت حاصل ہوئی۔ کوہان کا پچھلا حصہ۔ جِ

صِهَاءٌ وَصَهَوَاتٌ.....: پہاڑ کی چوٹی کا برج۔ جِ صَهْهِي.....: زمین کا پست حصہ جس میں پانی جمع ہو۔ پانی کا منبع۔ جِ صِهَاءٌ:

صَابٌ يَصُوبُ صَوْبًا وَمَصَابًا: المَطَرُ: بارش ہونا..... الشَّيْءُ: اوپر سے اترنا.....

صَوْبًا (المَاءُ: بہانا..... السَّمَاءُ: الأَرْضُ: برسات..... المَطَرُ: بارش کا پھینکانا.....

صَوْبًا وَصَيُّوبَةٌ) السَّهْمُ نَحْوَ الرَّمِيَةِ: تیر کا ٹھیک نشانہ پر لگانا۔

صَابٌ يَصِيْبُ صَيْبًا: السَّهْمُ القِرطَاسُ: تیر کا نشانہ پر لگانا۔

صَوْبٌ: لَهُ رَايَةٌ: تصدیق کرنا..... فَلَانًا: کسی کی تصدیق کرنا..... السَّهْمُ: سیدھا کرنا..... الفَرَسُ: گھوڑے کو دوڑنے کے لئے چھوڑنا..... الإِنَاءُ: جھکا دینا..... المَاءُ:

گرادینا..... زَاَسَةٌ: پست کرنا..... المَكَانُ وَغَيْرُهُ: ڈھلوان ہونا۔

أَصَابَ السَّهْمُ: تیر کا نشانہ پر لگانا.....

الزَّجْلُ: درست کرنا..... الشَّيْءُ: صواب سمجھنا..... مِنَ الشَّيْءِ: لیتا..... الشَّيْءُ: پانا۔

جڑ سے اکھیڑنا۔ پست کرنا..... إِصَابَةٌ وَمُصَابَةٌ) الذَّهْرُ القَوْمُ بِأَمْرِ لَهُمْ أَوْ نَفْوِيهِمْ: تکلیف دینا۔ أَصَابَتِ المَصِيْبَةُ فَلَانًا: نازل ہونا۔ أَصَابَهُ بِغَيْرِهِ: نظر بد لگانا۔

تَصَوَّبٌ: نیچے اترنا۔

إِنْصَابُ النِّصَابِ: المَاءُ: پانی کا بہنا۔

إِسْتَصَابَ اسْتِصَابَةً أَوْ اسْتَصَوَّبَ اسْتِصَوَابًا: الرَّأْيُ أَوِ الفِعْلُ: صواب سمجھنا۔

الضَّابُّ: ایک کڑوا درخت ہے ضَابَةٌ واحد اور ”ضَابَةٌ“ اس درخت کے عصارہ کو بھی کہتے ہیں۔

الصَّوْبُ: جانب۔ کہا جاتا ہے ”فَلَانٌ مُتَّقِيْمُ الصَّوْبِ“: جب کہ اپنے ارادہ سے دائیں بائیں جانب مائل نہ ہو۔ صوب

مطر سے تشبیہ دے کر عطا کے معنی بھی آتے ہیں۔ ضدِ خطا (..... الصَّيْبُ): بارش والا

بادل۔

الضَّابَّةُ: مصیبت۔ عقل کی کمزوری۔ کہا جاتا ہے ”لَمِنِي عَقْلِيهِ ضَابَةٌ“: یعنی تھوڑا سا جنون ہے۔

الصَّوْبَةُ: غلہ کا ڈھیر۔

الصَّوَابُ: ٹھیک۔ لائق۔ حق۔

الصَّالِبُ: ٹھیک کرنے والا۔ جِ صَيَابُ: الصَّوْبُ وَالْمَصِيْبُ: درست کار۔

صَوْبٌ: ٹھیک کرنے والا۔ بارش۔

مَطَرٌ صَوْبٌ: بہنے والی بارش۔

صَوَابَةُ القَوْمِ وَصَيَابُهُمْ وَصَيَابَتُهُمْ: قوم کے منتخب لوگ۔

الأَصْوَابُ: سخت مصیبت والا۔

المُصِيْبَةُ: بلا۔ ہر امر مکروہ۔ جِ مَصَابِيبُ وَمَصَاوِبُ وَمُصِيْبَاتٌ:

المُصَابُ وَالْمُصَابَةُ وَالْمُصَوَّبَةُ: بلا۔ ہر امر مکروہ۔

المُصَابُ: جس میں کچھ جنون ہو۔

المُصَوَّبُ: چچھ۔ ڈوٹی۔

الصَّوْبُجُ وَالصَّوْبُجُ: بیلن۔

صَاتٌ يَصُوْتُ وَيَصَاتُ صَوْتًُا: آواز دینا۔ پکارنا۔

صَوْتُ تَصْوِيْتًا وَأَصَاتٌ إِصَاتَةً: آواز دینا۔ أَصَاتُ بِلَانٍ: کسی کے متعلق غیر پسندیدہ چیز کو مشہور کرنا۔ أَصَاتُ الطُّسْتِ وَصَوْتُهُ: طشت بجانا۔

إِنْصَاتُ الزَّجْلُ: چپکے سے جانا۔ جھکاؤ کے بعد قد کا سیدھا ہونا۔ کہا جاتا ہے ”إِنْصَاتُ بِيهِ الزَّمَانُ“: یعنی مشہور ہو گیا۔ ”دُعِيَ فَاَنْصَاتُ“: بلا یا گیا پس متوجہ ہوا۔

الصَّوْبُتُ: آواز۔ ہر قسم کا راگ۔ جِ

أَصْوَاتٌ مَحْوِيُوں کے نزدیک اسماء اصوات وہ ہیں کہ جن سے کسی آواز کی حکایت کی جائے جیسے پتھر پر پتھر کی آواز کے لئے طوق۔

اور یا جن سے جانور وغیرہ کو آواز دی جائے یا ڈانٹا جائے جیسے گھوڑے کے لئے هَلَا اور خچر کے لئے عَدَسُ.

اور یا تعجب کے لئے جیسے وَى يَا اظہار درد کے لئے جیسے أْح: یا اظہار حسرت و افسوس کے لئے جیسے آه۔

الصوت والصفات والصفات والصفات: اچھی شہرت۔ کہا جاتا ہے ”انْتَشَرَ صَوْتُهُ بَيْنَ النَّاسِ“ اس کی شہرت لوگوں میں پھیل گئی۔ الصيئة: نوع آواز۔

الصفات والصفات: بلند آواز والا۔ کہا جاتا ہے ”زَجْلٌ صَاتٌ وَصَوْتُ صَيْتٌ

المصنوعات: بہت آواز دینے والا۔ کہا جاتا ہے ”مَا بِالْدارِ مِصْوَاتٌ“: یعنی گھر میں کوئی نہیں۔

الصُّوْحَانُ: خشک تخت۔ مؤنث صُوْحَانَةٌ: نخلہ صُوْحَانَةٌ: خشک درخت خرما جس کے پتے بھی خشک ہوں۔ کہا جاتا ہے

الصُّوْحَانُ: خشک تخت۔ مؤنث صُوْحَانَةٌ: نخلہ صُوْحَانَةٌ: خشک درخت خرما جس کے پتے بھی خشک ہوں۔ کہا جاتا ہے

الصُّوْحَانُ: خشک تخت۔ مؤنث صُوْحَانَةٌ: نخلہ صُوْحَانَةٌ: خشک درخت خرما جس کے پتے بھی خشک ہوں۔ کہا جاتا ہے

الصُّوْحَانُ: خشک تخت۔ مؤنث صُوْحَانَةٌ: نخلہ صُوْحَانَةٌ: خشک درخت خرما جس کے پتے بھی خشک ہوں۔ کہا جاتا ہے

الصُّوْحَانُ: خشک تخت۔ مؤنث صُوْحَانَةٌ: نخلہ صُوْحَانَةٌ: خشک درخت خرما جس کے پتے بھی خشک ہوں۔ کہا جاتا ہے

”اى صَوْجَانِ هُوَ“: يعنى کون آدمی وہ ہے۔

صَاخَةٌ يَصُوحُ صَوْخًا: پھاڑنا۔

صَوْخَتُهُ: الشَّمْسُ او الرِّيحُ: خشک کرنا۔

صَوْخُ البَقْلِ: خشک ہونا۔

تَصَوَّحَ: پھشنا۔ خشک ہونا۔

إِنصَاخٌ: إِنصِيَاخًا: پھشنا..... الفَجْرُ: روشن ہونا۔

الصُّوْحُ وَالصُّوْحُ: نہر کا کنارہ۔ دامن کوہ۔

الصَّاحَةُ: بجز زمین۔

الصُّوَّاحُ: گھوڑے کا پینہ۔ کھجور کا خشک ٹھکونہ۔

الصُّوْحَانُ: خشک۔

صَاخٌ يَصُوحُ صَوْخًا: فِي الأَرْضِ: زمین میں دھننا۔

أَصَاخٌ إِصَاخَةٌ: لَهُ وَاليَبِ: کان لگانا۔ کہا جاتا ہے اصاخ عن كذا: یعنی فلاں چیز سے رجوع کیا و ”أصاخ على خفي فلان“: فلاں کے حق ضائع کرنے پر خاموش رہا۔

الصَّاحَةُ: مصیبت۔ بڑی پر صدمہ کا اثر۔ صاخ و صاخات۔

بَلَدٌ صَوَّاحٌ: وہ شہر جس میں پیر دھنس جاتے ہوں۔

الصُّوْدِيُّومُ: سوڈیم ایک سفید دھات چاندی کی طرح جس سے نمک کھانے والا بنتا ہے۔

سوڈیم کاربونیٹ: غسل اور پردہ منہ وغیرہ کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ سوڈیم نائٹریٹ:

فصل کو بار آور کرنے کے لیے ایک کھاد۔

صَارَ يَصُورُ صَوْرًا: آواز دینا..... الشئ:

جھکا دینا۔ تم کہتے ہو ”صَارَ عُنُقُهُ او وَجْهَهُ إِلى“ یعنی اس نے اپنی گردن یا اپنے چہرے کو میری طرف مائل کیا۔ کسی چیز کو اپنی طرف

جھکانا۔ کہا جاتا ہے ”صُرْتُ العَصْنَ لَأَجْنَبِي السَّمْرِ“ یعنی میں نے ٹہنی اپنی طرف

جھکا لی تاکہ پھل توڑوں..... الشئ: کاٹنا۔

جد کرنا۔

صَوْرٌ يَصُورُ صَوْرًا: جھکانا۔ صفت أَصُوْرٌ:

کہا جاتا ہے ”هُوَ أَصُوْرٌ إِلَى كَذَا“: جب

کہ اپنی گردن یا چہرے کو مائل کرے۔

صَوْرَةٌ: تصویر بنانا۔

صَوْرٌ لِي: خیال میں آنا۔

أَصَارُهُ: جھکا دینا۔ توڑنا۔

تَصَوَّرَ: الشئ: ذہن میں لانا۔ خیال میں لانا..... السَّرْجُلُ: گرنا یا گرنے کے قریب

ہونا۔ کہا جاتا ہے ”طَعَنَهُ فَتَصَوَّرَ“: اس نے نیزہ مارا پس وہ گر گیا۔ تَصَوَّرَ لَهُ الشئ“: اس کے ذہن میں صورت آ گئی۔

إِنصَارَ إِنصِيَارًا: جھکانا۔ ٹوٹنا۔

الصُّوْرُ: چھوٹا درخت خرما۔ ج صِيْرَانُ وَأَصْوَارُ: گردن کا پہلو۔ نہر کا کنارہ۔ ج صِيْرَانُ

صِيْرَانُ.

الصُّوْرُ: زرنگھا

الصُّوْرُ: کئی۔ بیزھا۔ کہا جاتا ہے ”فِي عُنُقِهِ صَوْرٌ“ یعنی اس کی گردن میں کئی ہے۔

الصَّارَةُ: مِنَ التَّجْمِيْلِ: پہاڑ کی چوٹی۔

صَارَةُ المِنْكِبِ: منگ کا ڈبہ۔

الصُّوْرَةُ: اسم مرءة۔ جھکاؤ۔ سر کی خارش۔

الصُّوْرَةُ: شکل۔ ج صُوْرٌ. صُوْرٌ. صُوْرٌ.

الصُّوْرَةُ: صفت۔ نوع۔ چہرہ۔

الصُّوَارُ وَالصُّوَارُ: گائیوں کا گلہ۔ اچھی بو۔

تھوڑا سا منگ۔ منگ کا ڈبہ۔ ج صِيْرَانُ.

الصُّوَارُ: گائیوں کا گلہ۔

الصِّيَارُ: گائیوں کا گلہ۔ ج صِيْرَانُ.

الصَّيْرُ: اچھی صورت والا۔ کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ صَيْرٌ شَيْرٌ“ مرد اچھی صورت بیٹ کا۔

الأصُوْرُ: جھکاؤ والا۔

التَّصْوِيْرَةُ: سٹیجور۔ مجسمہ۔ بُت۔

المصُوْرُ: قا۔ تصویر بنانے والا۔

مُصَوِّرُ الكَائِنَاتِ: اللہ تعالیٰ۔

الصُّوْصُ: لَبِيْمٌ۔ بخیل۔ جو رات کو چھپ کر آئے تاکہ مہمان نہ دیکھے۔ الصُّوْصُ عِنْدَ العَامَةِ: عوام کے نزدیک مرغی کا بچہ جبکہ

وہ انڈے سے نکلے اور فصیح لفظ قُوب ہے۔

صَاعٌ يَصُوْعُ صَوْعًا. الحَبُّ: صاع سے ناپنا..... السَّقْمُ: ایک کا دوسرے پر حملہ کرنا

..... الشئ: موڑنا۔ متفرق کرنا..... القَوْمُ:

قوم پر اطراف سے آنا..... السَّخْلُ: شہد کی مکھیوں کا ایک دوسرے کے پیچھے جانا

..... الرَّجُلُ: خوف دلانا۔ گھبرا دینا۔

صَوْعٌ. الشئ: گول اور نوکدار بنانا..... لِلسَّقَطِيْنَ: روئی دھننے کے لئے جگہ صاف کرنا

..... الرِّيحُ النَّبَاتُ: ہوا کا پودوں کو حرکت دینا..... الطَّائِرُ بِرَأْسِهِ: پرندہ کا سر کو حرکت

دینا..... السَّرْسُ: سرکشی کرنا۔ کہا جاتا ہے

”صَوَّعَ بِهِ فَرَسُهُ“ یعنی سرکشی کی اور قبضہ میں نہیں آیا۔

تَصَوَّعٌ: متفرق ہونا۔ دور ہونا۔ پھیلنا۔

النَّبَاتُ: پودہ کا ہلنا ہلہلانا..... الشَّعْرُ:

پراگندہ ہونا۔

إِنصَاعٌ إِنصِيَاغًا: جلدی لوٹنا۔ گزرتا۔

الصَّاعُ وَالصُّوْعُ وَالصُّوْعُ: ایک قسم کا پیمانہ جو اسی روپے کے سیر سے ساڑھے تین

سیر کے مساوی ہے۔ ج أَصْوَاعٌ أَصْوْعٌ وَأَصْوْعٌ وَصُوْعٌ وَصِيْعَانٌ. الصَّاعُ: پست

زمین۔ کھینے کا ڈنڈا۔ سینہ کا وسط۔ وہ زمین جس میں جھاڑو دے کر کھیل جائے۔

الصَّاعَةُ: پست زمین۔ روئی یا اون دھننے کے لئے زمین۔ کہا جاتا ہے ”أَتَّخِذُ

لِصُوْفِكَ صَاعَةً“: اپنی اون دھننے کے لئے زمین بنا لو۔

الصُّوَاعُ وَالصُّوَاعُ: پانی پینے کا پیالہ۔ ج صِيْعَانٌ.

صَاعٌ يَصُوْعُ صَوْعًا. المَاءُ: پانی کا نیچے اتر جانا..... الشئ: درست نمونہ پر راستہ کرنا

..... الكَلِمَةُ: وزن مخصوص پر دوسرے کلمہ سے کوئی کلمہ بنانا۔ کہا جاتا ہے ”صَاعَ الكَلَامُ“: یعنی گھڑ لیا۔ صَاعَ اللہُ فُلَانًا

صِبْغَةً حَسَنَةً“ یعنی فلاں کو اللہ تعالیٰ نے اچھے طریقے سے پیدا کیا۔ ”وَصَبَغَ عَلَيَّ

صِبْغَةً حَسَنَةً“ یعنی فلاں کو اللہ تعالیٰ نے اچھے طریقے سے پیدا کیا۔

صَيْغَةً: یعنی وہ اس کی پیدائش پر پیدا کیا گیا۔ وَصَاعٌ لَهُ الشَّرَابُ: اس کے لئے شراب خوشگوار ہوئی۔

صَاعٌ يَصُوغُ صَيْغَةً وَصِيَاغَةً وَصَيْغُوغَةً. الشُّيْ: پگھلانا ڈھالنا۔

إِنْصَاعٌ أَنْصِيَاغًا: پگھلانا ڈھلانا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ صَوْغٌ أَوْ صَوْغَةٌ أَنْصِيَّةٌ": یعنی وہ

اس کے ساتھ پیدا ہوا یا اس کے بعد پیدا ہوا کہ ان دونوں کے درمیان اور کوئی نہیں۔

"هَذَا صَوْغٌ هَذَا" یعنی وہ اس کے مطابق ہے۔ "هَذَا صَوْغَانٌ" یعنی وہ پیدائش وغیرہ

میں ایک جیسے ہیں۔

الصَيْغَةُ: قسم۔ اصل۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مِنْ صَيْغَةٍ كَرِيمَةٍ" یعنی وہ اصل کریم سے ہے

"وَصَيْغَةُ الْأَمْرِ كَذَا وَكَذَا" مراد وہ وزن ہے جس پر امر کا صیغہ بنایا جائے۔ رج صیغ.

الصَائِعُ: زرگر۔ سار۔ رج صَاعَةٌ وَصِيَاغٌ وَصَوْاغٌ. الصِّيَاغَةُ: زرگری۔ سناری کا

پیشہ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مِنْ صَاعَةِ الْكَلَامِ" یعنی وہ لپاڑیا ہے۔

الصَّوَاغُ وَالصَّيَاغُ وَالصَّيِغُ: لپاڑیا۔ مجھوتا۔ المصاغ: ڈھالے ہوئے زیور۔

صَافٌ يَصُوفُ صَوْفًا. عَنْ كَذَا: اعراض کرنا۔ السَّهُمُ عَنِ الْهَدْفِ: تیر کا نشانہ

سے خطا ہو جانا۔ صَوْفًا وَصُوفًا وَصَوْفًا وَصَوْفٌ يَصُوفُ صَوْفًا الْكَبِشُ: مینڈھے کا بہت اون والا ہونا۔ صفت

أَصُوفٌ. صَوْفَةٌ: صوفی بنانا۔ أَصَافَةٌ: ناکل کرنا۔ جھکانا۔

تَصَوَّفٌ: صوفی بننا۔ صوفیوں کی عادت بنانا۔

الصُّوفُ: اُون۔ رج أَصُوفٌ. صَوْفَةٌ: اُون کا کلا۔ کہا جاتا ہے "أَخَذَهُ بِصُوفِ رَقَبَتِهِ" یعنی زبردستی پکڑا "أَعْطَاهُ إِيَّاهُ بِصُوفِ رَقَبَتِهِ" یعنی تمامہ یا منت دے دیا۔

الصُّوْفُ: اُون کا بیج والا۔

الصُّوفِيَّةُ: عبادت گزاروں کی جماعت۔

واحد صوفی۔

الصَّافُ وَالصَّالِحِيُّ وَالصَّالِفِيُّ وَالصَّالِفِيُّ: اُون والا۔

الصُّوفَانُ: بہت اُون والا۔ مَوْتٌ صُوفَانَةٌ. الصُّوفَانُ: ایک نرم خشک چیز ہے جو درخت

کی ککڑی کے اندر ہوتی ہے جو جلدی آگ پکڑ لیتی ہے۔

الصُّوفُ وَالصُّوفَانِيُّ: بہت اُون والا۔ جُبَّةٌ صُوفِيَّةٌ: بہت اُون والا جبہ۔

صَاقٌ. الذَّائِبَةُ: ہانکنا۔ الصَّوْبِيُّ: ستو۔ سوتق میں ایک لغت ہے۔

الصَّاقُ: پنڈلی۔ رج صَوْقٌ سَاقٌ فِيهِ اِيكٌ لَغْتٌ هِيَ۔

صَاكٌ يَصُوكُ صَوْكًا. بِه الزَّعْفَرَانُ أَوْ الْمِسْكُ أَوْ نَحْوَهُمَا: زعفران یا مشک وغیرہ کا چکنا۔

تَصَوَّكٌ. فِيهِ رَجَبِيَّةٌ وَبِرَجَبِيَّةٍ: گور میں لتھڑنا۔

صَالَ يَصُولُ صَوْلًا وَصَوْلَةً. عَلَيْهِ: کود پڑنا۔ صَوْلًا وَصِيَالًا وَصَوْلًا وَصَوْلًا وَصِيَالًا وَمَصَالَةً عَلَيْهِ: حملہ کرنا اور

زبردستی کرنا۔

صَيْلٌ. لَه الْأَمْرُ: کوئی معاملہ مقدر کیا جانا۔

صَوَّلٌ. التَّيَسَّرُ: کھلیان کے اطراف و جوانب کو جھاڑ دینا۔ الشُّيْ: پانی سے نکالنا۔ پانی میں ڈال کر صاف کرنا۔

صَاوَلَةٌ مَصَاوَلَةٌ وَصِيَالَةٌ وَصِيَالَةٌ: ایک کا دوسرے پر حملہ کرنا۔ ایک دوسرے پر کود پڑنا۔

تَصَاوَلًا: ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔ ایک دوسرے پر کود پڑنا۔

الصُّوْلَةُ: حملہ۔ قدرت۔ قہر۔ کہا جاتا ہے "لَقِيْتُهُ أَوَّلَ صَوْلَةٍ" یعنی اول وہلہ میں ملاقات کی۔

صَوْلَةٌ. الْحِنطَةُ: پانی میں سے نکالا ہوا اور صاف کیا ہوا گیہوں۔

الصُّوَالَةُ: گیہوں وغیرہ کا کوڑا کرکٹ جو پانی

سے صاف کرنے میں نکلے۔ کھلیان کے ارد گرد کا کوڑا کرکٹ۔

الصُّوَالُ. مِنَ الرِّجَالِ: لوگوں کو مارنے والا۔ لوگوں پر زبردستی کرنے والا۔

المِصْوَالُ: بھگوانے کا برتن۔ رج مِصْوَالٌ. المِصْوَالَةُ: کھلیان کا جھاڑو۔

صَامٌ يَصُومُ صَوْمًا وَصِيَامًا وَاضْطَامًا: روزہ رکھنا۔ چلنے پھرنے بولنے کھانے پینے سے رُک جانا۔ صَفْتٌ صَائِمٌ وَصَائِمُونَ وَصَوْمٌ وَصِيَامٌ وَصَوْمٌ وَصِيَامٌ.

صَامَ الشَّهْرَ: روزہ رکھنا۔ مَنِيَّةٌ: موت چکھنا۔ النِّعَامُ: شتر مرغ کا گوشت کرنا۔ صَامَ النَّهَارَ: دوپہر ہونا۔ صَامَتِ الشَّمْسُ:

آفتاب کا وسط آسمان پر پہنچنا۔ کہا جاتا ہے "حَبَّتْهُ وَالشَّمْسُ فِي مِصَامَتِهَا": یعنی میں اس کے پاس ایسے وقت پہنچا کہ آفتاب وسط آسمان میں تھا۔ صَامَتِ الرَّيْحُ: ہوا کا رُک جانا۔

صَوْمَةٌ: روزہ رکھنا۔

الصُّومُ: روزہ۔ کام سے رُکنا۔ روزہ دار نے لفظ مذکر و مؤنث واحد جمع سب پر یولا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے "هُوَ صَوْمٌ هِيَ صَوْمٌ هُمْ صَوْمٌ. شَهْرُ الصُّومِ: رمضان۔ صَوْمُ النِّعَامِ: شتر مرغ کی بیٹ۔

الصُّوَامُ. مِنَ الْأَرَاضِيِّ: خشک بے پانی کی زمینیں۔

الصُّومَانُ: روزہ دار۔ رج صِيَامِي.

الصَّائِمُ: روزہ دار۔ يَوْمٌ صَائِمٌ: وہ دن جس میں روزہ رکھا جائے۔ مَاءٌ صَائِمٌ: ٹھہرا ہوا پانی۔ الصَّائِمَةُ مِنَ السَّكَاكِينِ: کند چھری۔

..... مِنَ النَّخِيلِ: بخیر چارہ کے کھڑا ہونے والا گھوڑا۔ وَالصَّائِمَةُ مِنَ الْبُكَرَاتِ: نہ گھوننے والی چرخی۔

الصُّوَامُ: بہت روزہ دار۔ کہا جاتا ہے "هُوَ صَوْمٌ قَسْوَامٌ": یعنی وہ دن میں روزے رکھنے والا اور رات میں عبادت کرنے والا ہے۔

مَصَامُ الْفَرَسِ وَمَصَانِفُهَا : گھوڑے کے کھڑے ہونے کی جگہ۔

صَوْمَعُ الشَّيْءِ : جمع کرنا..... البِنَاءُ : عمارت کو بلند کرنا۔

الصُّومَعَةُ وَالصُّومَعُ : راہب کی کئی گرجا۔ الصُّومَعَةُ : عقاب۔ ایک قسم کی لمبی ٹوپی۔ پہاڑ کی چوٹی۔ ج صَوَامِعُ.

صَوْمَلُ الرَّجُلِ : کھال کا بھوک کی وجہ سے خشک ہو جانا۔

صَانَهُ يَصُونُهُ صَوْنًا وَصِيَانًا وَصِيَانَةً : اِدْطَانَهُ اِدْطِيَانًا : حفاظت کرنا۔ صفت

مفعول مَصُونٌ. مَصُونُونَ : دوسرا کم استعمال ہوتا ہے۔ صَانُ النَّوْبِ او العَرْضِ :

کپڑے اور آبرو کو عیب لگانے والی چیزوں سے محفوظ رکھنا۔

تَصَوَّنَ وَتَصَاوَنَ مِنَ الْعَيْبِ : اپنے نفس کی عیب سے حفاظت کرنا۔ تَصَوَّنَهُ : بچنے کے لئے تکلف کرنا۔

الصُّوَانُ وَالصُّوَانُ وَالصُّوَانُ وَالصُّوَانُ وَالصُّوَانُ وَالصُّوَانُ : کپڑوں یا کتابوں کے محفوظ کرنے کا برتن۔

الصُّوَانَةُ : ایک سخت قسم کا پتھر۔ دُر۔

الصُّوَانُ وَالصُّوَانُ : کمان وغیرہ کا غلاف۔

الصُّوُ : خالی کہا جاتا ہے "اِنَاءٌ صُوٌّ" خالی برتن۔

الصُّوِيَّةُ : گونج۔ آواز بازگشت۔ ٹیلہ نشان راہ کا پتھر۔ ج صَوِيٌّ جِ اَصْوَاءُ. الصُّوِيٌّ

وَالاَصْوَاءُ : قبور۔

صَوِيٌّ يَصْوِيٌّ صَوِيًّا صَوِيٌّ يَصْوِيٌّ صَوِيٌّ وَصَوِيٌّ تَصْوِيَّةٌ وَصَوِيٌّ اِصْوَاءٌ الصُّوِيُّ

الصُّوِيُّ : خشک ہونا۔ صفت صَوِيٌّ وَصَوِيٌّ الضَّرْعُ : تھن کا خشک ہو جانا۔

صَوِيٌّ (س) صَوِيٌّ الرَّجُلُ : قوی ہونا۔

صَابٌ يَصِيْبُ صِيَابًا : درست ہونا۔ صفت صَائِبٌ. صَابُهُ السُّهْمُ : تیر کا نشانہ پر لگانا۔

سَهْمٌ صَوِيْبٌ : تیر نشانہ پر لگنے والا۔ ج

صَيُّوْبٌ.

الصُّيَابُ وَالصُّيَابَةُ وَالصُّيَابُ وَالصُّيَابَةُ : خالص۔ ہر چیز میں سے عمدہ۔ کہا جاتا ہے

"هُوَ مِنْ صَيَابِهِمْ وَمِنْ صَيَابَتِهِمْ" یعنی وہ سب میں عمدہ ہے۔

الصُّيَابَةُ : سردار۔ جماعت۔ کہا جاتا ہے "هُوَ صَيَابَةُ قَوْمِهِ" : وہ اپنی قوم کا سردار

ہے۔ صَيَابَةُ الْقَوْمِ : یعنی جماعت قوم۔

صَاحٌ يَصِيْحُ صِيْحًا وَصِيْحَةً وَصِيَاخًا وَصِيَاخًا وَصِيْحَانًا : چیخنا چلانا..... بہہ

پکارتا۔ آواز دینا..... عَلَيْهِ : ڈانٹنا..... الغَنَفُودُ : ترخوشے کا بڑھنا۔

صِيْحٌ بِهْمٌ : گھبرانا..... فيهم : ہلاک ہونا۔ صَيْحٌ : چیخنے میں مبالغہ کرنا..... الشَّيْءُ : توڑ دینا۔ پھاڑنا۔ صَيْحَتِ الرِّيْحُ او الشَّمْسُ

البَقْلُ : ہوا یا آفتاب کا ساگ کو خشک کرنا۔ صَيَاخٌ وَصَيَاخٌ : القَوْمُ : ایک دوسرے کو

پکارتا۔ صَيَاخٌ بِه : آواز دینا۔ پکارتا۔

تَصَيَّاخٌ جَفْنُ السَّيْفِ : تلوار کے میان کا پھٹ جانا۔

تَصَيَّحٌ وَانْصَاحٌ : پھٹ جانا۔ تَصَيَّحُ البَقْلِ : اوپر کی جانب سے خشک ہونا۔ شروع ہونا۔

انْصَاحُ الفَجْرِ وَالتَّرْقِيُّ : ظاہر ہونا۔ انْصَاحَتِ الارْضِ : زمین کا کچھ حصہ

روئیدگی سے ڈھک جانا اور کچھ کا خالی رہنا۔ الصَّيْحَةُ : چیخ۔ عذاب۔ اچانک غارت۔

الصَّيْحَةُ : موٹے صلیح : لوح کی چیخ۔ الصَّيْحُ : بہت چیخنے والا۔

صَادٌ يَصِيْدُ وَيَصَادُ صَيْدًا وَتَصَيَّدٌ وَاصْطَادَ. الطَّيْرُ : پرندے کا شکار کرنا۔

صفت صَائِدٌ. صَادٌ فَلَانًا : کسی کے لئے شکار کرنا۔ صَادٌ وَاصْطَادَ المَكَانَ : فلاں جگہ

میں شکار کرنا۔ صَادٌ زَيْدًا : ٹیڑھی گردن کا کر دینا۔

صَيْدٌ يَصِيْدُ صَيْدًا : ٹیڑھی گردن کا ہونا۔ اَصَادَةٌ : شکار پر آکسانا۔ اَصَادَ البَعِيْرُ :

تکلیف دینا۔ علاج کرنا (کبھی گردن کا)

الاصْيَدُ : تکبیر سے سر کو بلند کرنے والا۔ وہ اونٹ جس کی گردن ٹیڑھی ہو۔ بادشاہ اس کے لئے کہ وہ بھی فخر و غرور کی وجہ سے ادھر ادھر نہیں دیکھتا۔ شیر۔ موٹے صَيْدَاءُ ج صَيْدٌ.

الصَّادُ : حروف تہجی کا ایک حرف جس کا عدد بحساب جمل ۹۰ ہے۔ تانبا۔ پیتل۔ ج صَيْدَانٌ : ایک مرض ہے جو اونٹ کو ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے اس کی ناک ہمیشہ بہتی رہتی ہے اور وہ اپنے سر کو بلند کرتا ہے۔ شیر۔

الصَّيْدُ : شکار۔

الصَّيْدَاءُ : موٹے اصْيَدٌ : تکبیر اَرْضُ صَيْدَاءُ : سخت زمین۔

الصَّيْدُ : مصل (.....) والصَّيْدُ : اونٹ کی مذکورہ بالا بیماری۔

الصَّيَادُ : شکاری۔ شیر۔

الصَّيُوْدُ : شکاری۔ کہا جاتا ہے كَلْبٌ صَيُوْدٌ وَصَفْرٌ صَيُوْدٌ. ج صَيْدٌ وَصَيُوْدٌ.

الصَّيُوْدُ مِنَ النِّسَاءِ : بدخلق عورت۔

الصَّيْدَانُ : ہونا۔ تانبا۔ صَيْدَانُ الحَصَى : کنکریاں۔

الصَّيْدَانَةُ : بھوت..... مِنَ النِّسَاءِ : بدخلق۔ بہت بولنے والی۔

المَصِيْدُ وَالمَصِيْلَةُ وَالمَصِيْنَةُ وَالمَصِيْنَةُ : جال۔

المَصِيْدُ : شکار کیا ہوا۔

المَصَادُ وَالمَصْطَادُ وَالمَصِيْدُ : شکار گاہ۔

الصَّيْدَلَةُ : دوا فروش۔

الصَّيْدَلِيُّ وَالصَّيْدَلَانِيُّ : دوا فروش۔ ج صَيَادِلَةٌ : یہ کلمہ دخل ہے اور اس کے لئے

اجزائی کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور دوا خانہ کو اجزائیہ کہتے ہیں۔

الصَّيْدَنُ : مضبوط عمارت۔ چاندی کی سل۔

تنگ چادر۔ بچو۔ لومڑی۔ بادشاہ۔ عطر فروش۔ ایک چھوٹا سا جانور جو اپنے آپ کو

لوگوں کی نگاہ سے محفوظ رکھنے کے لئے زمین

موسم گرما کی بارش بڑی زیادہ مقدار میں بری۔	گرہمی اور ہر پناہ لینے کی جگہ۔ ج	میں بحث بناتا ہے۔
الصَّيْفُ وَالصَّيْفِيُّ: گھاس جو موسم گرما میں آگتی ہے۔	صَيَّحَ: صَاعٌ يَصْنَعُ صَيْغًا وَأَصَاعَ.	الصَّيْدَانِيُّ: بحث۔
الصَّائِفُ وَالصَّافِ: گرم۔ صَيْفٌ صَائِفٌ: تاکید کے موقعہ پر بولا جاتا ہے۔ جیسے "لَيْلٌ لَّأَوَّلِ".	الغَمُّ: متفرق کرنا..... القَوْمُ: ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔	صَارَ يَصِيرُ صَيْرًا وَصَيْرُورَةً وَمَصِيرًا: لوٹنا۔ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹنا۔ جیسے "صَارَ زَيْدٌ غَيْبًا" یعنی فخر سے غنا کی طرف پلٹ گیا۔ منتقل ہونا..... الی
الصَّائِفَةُ: مَوْنَتُ الصَّائِفِ: کا۔ موسم گرما کا وقت۔ گرمی کے زمانہ میں جنگ۔	تَصَيَّحَ: الماءُ: متحرک ہونا۔ جوش مارنا۔	كَذَا أَوْ السِّيَ فُلَانٍ: پہنچنا۔ دوسرے اعمال ناقص میں سے ہے۔
"صَائِفَةُ القَوْمِ" زمانہ گرما کی خوراک۔ ج صَوَائِفِ.	الطَّيْرُ: فضاء آسمان میں چڑھنا۔	صَارَ يَصِيرُ صَيْفًا وَصَيْفٌ وَتَصَيَّفَ وَاصْيَفَ: السَّكَّانُ: موسم گرما میں اقامت کرنا۔ اور کہا جاتا ہے "هَذَا الطَّغَامُ يُصَيِّفِي" یعنی یہ کھانا میرے لئے گرم موسم گرما بھر کے لئے کافی ہے۔
الصَّيْفُ وَالْمُتَصَيِّفُ وَالْمُصْطَافُ: موسم گرما میں کرنے کا مکان۔ المَصْيِفُ: ندی جہاں پر پل کھاتی ہو۔	صَافٌ: (ض) صَيْفًا وَصَيْفُورَةً. السَّهْمُ عَنِ الْهَدَفِ: تیر کا نشانہ سے خطا کرنا..... غنمی وَجْهَةٌ: منہ پھیر لینا۔	صَيْرُهُ وَأَصَارُهُ إِصَارَةٌ: ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف کر دینا۔
أَرْضٌ مِصْيَافٌ: زمین جس میں روئیدگی مؤخر ہو جائے اور موسم گرما میں اس میں بارش زیادہ ہوئی۔ ج مَصَائِفِ.	صَيْفٌ وَصَيْفٌ: السَّكَّانُ أَوْ الرَّجُلُ: مکان یا آدمی پر موسم گرما میں بارش ہونا۔ صفت مفعولی۔ مَصْيِفٌ مَصْيُوفٌ وَمُصَيِّفٌ.	تَصَيْرُهُ: مشابہ ہونا۔
الصَّيْقُ: چڑا چڑے۔ ج صَيْقَانٌ: پیند۔ بدبو۔ آواز..... وَالصَّيْقَةُ: وہ غبار جو فضاء آسمانی میں چکر لگائے۔ ج صَيْقٌ.	صَائِفَةٌ مِصَائِفَةٌ وَصَيَّافًا: موسم گرما کے لئے معاملہ کرنا۔	الصَّيْرُ: انجرام۔
صَاكٌ يَصِيكُ صَيْكًا: بہ الطَّيْبُ أَوْ الدَّمُ: خوشبو یا خون کا چپکنا۔	أَصَافٌ إِصَافَةٌ: بڑھاپے میں شادی کرنا یا بڑھاپے میں بچہ پیدا ہونا..... القَوْمُ: زمانہ گرمی میں داخل ہونا..... اللَّئِمَةُ عِنْدَ الشَّرِّ: اللہ کا شر کو دور کرنا۔ أَصَافَتِ الذَّابَّةُ: جانور کا گرمی کے زمانہ میں بچہ دینا۔	الصَّيْرُ: کسی شے کا کنارہ۔ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ عَلِيٌّ صَيْرُ الْأَمْرِ": یعنی فلاں کام کے پوزے ہونے کے کنارے پر ہے۔ دروازے کی جھری۔ چھوٹی نمکین مچھلیاں۔ یہودیوں کا پادری۔ انجرام کار۔
صَيْلٌ: لَهْ كَذَا: مقدر کیا جاتا۔	الصَّيْفُ: موسم گرما۔ ج أَصْيَافٌ.	الصَّيَارُ: گاؤں کا گلہ۔ چنگ کی آواز۔
الصَّيْمُ: بہت سخت۔	الصَّيْفَةُ: موسم گرما۔ یہ صَيْفٌ سے اخص: ہے۔ ج صَيْفٌ.	الصَّيَازَةُ وَالصَّيْرَةُ: گائے بکریوں کا پاڑہ۔
الصَّيْنُ: ملک چین۔	الصَّيْفُ وَالصَّيْفَةُ: موسم گرما کی بارش۔ کہا جاتا ہے "أَصَابَتْنَا صَيْفَةٌ عَزِيْزَةٌ": ہم پر	ج صَيْرٌ وَصَيْرٌ.
الصَّوَالِسِيُّ: چینی برتن۔ واحد صَيْبِيَّةٌ.	صَيْفٌ وَصَيْفَةٌ: موسم گرما کی بارش۔ کہا جاتا ہے "أَصَابَتْنَا صَيْفَةٌ عَزِيْزَةٌ": ہم پر	الصَّيْرَةُ: جنگ گھاس۔
الصَّيْبِيَّةُ: کسی دھات کا طبق جو کسی چیز کو پیش کرنے کے لئے بنایا گیا ہو۔		الصَّيْرُ: جماعت۔ قبر۔
		الصَّيْرُ: منتقل رائے..... الصَّيْرُورَةُ: انجرام کار۔
		الصَّيْرُ: انجرام کار۔ پانی کا شہتی۔ ج مَصَالِرُ.
		الصَّيْبَةُ وَالصَّيْبِيَّةُ: کپڑا بننے والے کا کوچ۔ مرغ کا خار۔ ہرن اور گائے کا سینگ۔ چھوڑنے توڑنے کا دستہ۔ قلعہ۔



ضَبْتُ (ض) ضَبًّا: چپ ہونا..... السَّاقَةُ:
اونٹنی کو پوری پھسل لگا کر دوہنا..... غَلَسِي
الشَّيْءُ: جمع کرنا..... الشَّيْءُ: زمین سے چمٹنا
..... غَلَسِيهِ: مضبوطی سے پکڑنا۔ کہا جاتا ہے
”فَلَانٌ يَضِبُّ فُوهُ او تَضِبُّ لِفَاتِهِ بِكَذَا او
غَلَسِي كَذَا“ جبکہ حرص زیادہ ہو جائے (.....)
ضَبًّا وَضَبِيًّا الرَّيْقُ او الدَّمُ: تھوک یا خون
بہنا۔

ضَبْتُ (ض) ضَبًّا وَضَبُونًا الشَّفَقَةُ:
ہونٹ میں ایسی بیماری ہونا جس کی وجہ سے
خون نہ بہے۔

ضَبْبٌ يَضِبُّ وَيَضِبُّ يَضِبُّ ضَبَابَةً
السَّمَكَانُ کسی جگہ میں زیادہ گوبہ ہونا۔ صفت
ضَبْبٌ مَوْنُثٌ ضَبِيَّةٌ۔

ضَبْبٌ غَلَسِي الشَّيْءِ: سخت قبضہ کرنا۔ جمع
کرنا ضَبْبٌ غَلَسِي الضَّبِّ: گوبہ کو بھڑکانا۔
ضَبْبُ البَابِ: دروازے میں بلی لگانا۔

أَضَبْتُ: خاموش ہونا۔ چچھنا اور گفتگو کرنا
(ضد)..... السَّمَاءُ او الرِّيْقُ: پانی یا تھوک
بہنا..... اليَوْمِ دن کا کہہ والا ہونا.....

السَّمَكَانُ: زیادہ روئیدگی والا ہونا..... الشَّعْرُ
بال کا زیادہ ہونا..... القَوْمُ: کسی کام کے
لئے اکٹھا کئے گئے لوگ..... القَوْمُ فِي بَغِيَّتِهِمْ
حصول مطلب کے لئے متفرق ہونا۔ أَضْبُوا
لِفُلَانٍ: کسی کے طلب کرنے کے لئے متفرق
ہونا..... السَّمَاءُ او الدَّمُ: بہانا..... غَلَسِي

الأمير: حاوی ہونا..... غَلَسِي الشَّيْءِ: چھپانا
..... غَلَسِي المَطْلُوبِ: کامیابی کے قریب

زکام۔
ضَبُولُ: (ک) ضَالَّةٌ وَضُؤُولَةٌ: لاغر
ہونا۔ حقیر ہونا۔

ضَاءٌ لَ: شَخْصَةً: اپنے آپ کو حقیر کرنا۔
تَضَاءٌ لَ: حقیر ہونا۔ کمزور ہونا۔ چھوٹا ہونا۔
الشَّيْءِ: بگڑنا۔

إِضْطَالٌ: چھوٹا ہونا۔ کمزور ہونا۔ صفت
مُضْطَلِلٌ۔

الضَّيْبِيلُ: چھوٹا۔ باریک۔ حقیر۔ ڈبلا۔ رَج
ضُؤْلَاءٌ وَضِنَالٌ وَضَيْبِلُونٌ۔
الضُّؤُولَةُ: کمزور۔ ڈبلا۔

الضَّيْلَةُ: ضَيْبِيلٌ: کاموٹ۔ باریک
سانپ۔ حلق کا کوا۔
ضَانٌ (ف) ضَانًا. الضَّانُ: بھیڑ کو

بکریوں سے جدا کرنا۔
أَضَانٌ إِضَانًا: بہت بھیڑ والا ہونا۔
الضَّانُ: بھیڑ۔ ذنبہ۔

الضَّائِسِيُّ: مولدین کے نزدیک بھیڑ کا
گوشت۔
الضَّائِنُ: کمزور۔ کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ ضَائِنٌ“
کمزور مرد۔ ریت کا سفید چوڑا قطعہ۔ اون

والا۔ بھیڑ۔ ذنبہ۔ رَجُ ضَائِنٌ وَضَائِنٌ وَضَيْبِنٌ
وَضَيْبِنٌ۔
الضَّائِنَةُ: موٹ ضائین ج ضوائن۔

الضَّيْفِيُّ: دہی بنانے کی بڑی مشک بھیڑ کی
کھال کی۔
ضَائِي يَضَائِي ضَائِيًا. الرِّجْلُ: جسم کا لاغر
ہونا۔

ض: الضاد: پندرہواں حرف بنیادی حروف
سے مخارج کے لحاظ سے حروف شجر یہ سے
ہے۔

الضَّبُّ: ایک دریائی جانور۔ موتی۔
الضُّؤْبَانُ: موٹا قوی مرد یا اونٹ۔
ضَادٌ: (ف) ضَادًا: خصومت میں غالب
آنا۔

ضَيْدٌ وَضُؤَادًا: زکام زدہ ہونا۔
أَضَادَةٌ إِضَادًا: زکام میں مبتلا کرنا۔
الضُّؤُدُ وَالضُّؤُدَةُ وَالضُّؤُودَةُ: زکام۔
المَضُّؤُودُ: زکام زدہ۔

ضَاؤَةٌ: (ف) ضَاؤًا وَضَاؤًا: ظلم کرنا۔
ضَاؤَةٌ حَقُّهُ: حق گھٹانا۔

قِسْمَةٌ ضُؤُؤِي وَضَاؤِي وَضَيْبِي: ناقص
تقسیم۔
الضَّيْبَارُ: کاموں میں گھس پڑنے والا۔
الضُّؤُورَةُ: حقیر مرد۔

ضَاؤًا ضَاؤًا وَضُؤُؤًا ضُؤُؤًا. القَوْمُ
فِي الحَرْبِ: قوم کا لڑائی میں شور مچانا۔
الضَّاضَاؤُ وَالضُّؤُؤَا وَالضُّؤُؤِي: لڑائی کا
شور۔

الضُّؤُؤُؤُ وَالضَّيْبِيَّةُ: اصل۔ کان۔
معدن۔ الضُّؤُؤُؤُ: ایک قسم کا پرندہ جس
کے پدوں پر طرح طرح کے نقطے ہوتے
ہیں۔

ضَيْبَطٌ: (س) ضَاطًا. الرِّجْلُ: چلنے میں
موٹھے اور جسم کو حرکت دینا۔
ضَيْبِكُ: زکام زدہ ہوا۔ الضُّؤُؤَاكُ:

ہونا۔ اَضْبُوا عَلَيْهِ: جو کچھ دل میں ہو اس پر خاموش رہنا..... غَلِيَّ عَلَيْهِ: خاموش رہنا اور چھپانا..... مَا فَعِيَ يَدِهِ وَعَلَيْهِ: پکڑے رکھنا۔	اچانک آ جانا۔	ضَبْر: الشئ: جمع کرنا۔
تَضَبَّب: الضبب: گوہ۔ رَجَ اَضْبَبَ وَضْبَانٌ وَضْبَابٌ وَمَضْبَبَةٌ: عرب کہتے تھے "لَا اَفْعَلُهُ حَتَّى يَرَوْا الْمَضْبَبَ" یعنی میں یہ کام نہیں کروں گا یہاں تک کہ گوہ پانی پر آئے اس لئے کہ ان کو خیال تھا کہ گوہ پانی پر نہیں آیا کرتی۔	اَضْبَابًا اِضْبَابًا: مِنْهُ: چھپنا۔	ضُبُور: الضبْر: نقر۔ فَرَسٌ ضَبْرٌ: گھوڑا تمام الخلقہ۔
بَقْلَةُ الضَّبِّ: ایک خوشبودار نباتات۔	الضَّبَابِي: راکھ۔	الضَّبْرُ وَالضَّبْرُ: جنگلی اخروٹ کا درخت۔
الضَّبُّ: اُونٹ کے سینہ یا قدم کا درم۔	الْمَضْبَبُ: چھپنے کی جگہ۔ رَجَ مَضْبَابِي.	الضَّبْرُ وَالضَّبْرُ: جنگلی اخروٹ کا درخت۔
اُونٹ کے اگلے پیر کا مرض۔ ہونٹ کا مرض جس سے خون نپے۔	ضَبَّتْ: (ض) ضَبًّا وَاِضْطَبَّتْ بِالشَّيْءِ وَعَلَيْهِ: سختی سے قبض کرنا۔ ضَبَّتْ بِه: حملہ کرنا۔ ضَبَّتْ عَلَيْهِ: مارا جانا۔	الضَّبْرُ وَالضَّبْرُ: کتابیں۔ ان کا واحد نہیں۔
الضَّبُّ وَالضَّبُّ: پوشیدہ کینہ۔ رَجَ ضَبَابٌ كَمَا جَاءَتْ فِي "رَجُلٌ حَبَّ ضَبًّا" یعنی دعا باز حیلہ گر مرد۔	الضَّبَّةُ: الضَّبُّ: اُونٹ۔ غَوَّضْتُ قَلْبِي اس کے کہ کھلے۔ سختی سے نچوڑ کر دوہنا۔ دروازے کا لوہے یا لکڑی کا موسلا۔ رَجَ ضَبَابٌ.	الضَّبْرَةُ وَالضَّبْرَةُ: کتابوں کا بنڈل یا تیروں کا گٹھا۔ رَجَ ضَبَابِيَرُ.
الاضْبَابُ: مِنَ الْجَمَالِ: وہ اُونٹ جس کو (ضب) کی بیماری لاحق ہو۔ مَوْتٌ ضَبَّاءُ: رَجَ ضَبُّ.	ضَبَّاحَةٌ (ف) ضَبَّاحًا وَضَبَّاحًا: الْغَيْلُ فَعِي وَرَدَّهَا: گھوڑے کا دوڑنے کی حالت میں جوف سے آواز نکالنا۔ (..... ضَبَّاحًا) الْاَرْتَبُ وَالضَّبُّ وَالْقَوْسُ: آواز کرنا..... ضَبَّاحًا النَّارُ الْغَوْدُ: آگ کا لکڑی کو متغیر کر دینا۔	الضَّبْرَةُ: بہت زیادہ کودنے والا۔ الضَّبْرُ وَالضَّبْرُ: سخت۔ شیر۔ الضَّبْرُ: ملوٹی کا تاندا ایک درخت۔ واحد ضَبْرَةٌ.
الضَّبُّوْبُ: تھن میں تنگ سوراخ والی بکری۔ ضَبْبُ: السَّيْفُ: تلوار کی دھار۔	ضَبَّاحَةٌ: رُوْدِرٌ وَمَقَابِلُهُ كَرْنَا: گالی دینا۔ برا بھلا کہنا۔	الضَّبْرَةُ: کودنے والا۔ شیر۔ الْمَضْبُورُ: دارتلی۔
الضَّبَابِيَّةُ: کبرا۔ رَجَ ضَبَابٌ.	الضَّبَّاحَةُ: الضَّبَّاحَةُ: کمان کہ جس میں آگ کا اثر ہو۔ الضَّبْحُ: راکھ۔	ضَبْرَةٌ: (ض) ضَبْرًا: دکھنیوں سے تیز دیکھنا۔
الضَّبْبِيَّةُ: ایک قسم کی خوراک جو گھئی اور کھجور کے شیرے سے بچوں کے لئے تیار کی جاتی ہے۔	الْمَضْبُوحُ: سگستان کا پتھر۔	الضَّبْرُ وَالضَّبْرُ: مِنَ الذَّنَابِ: تیز نظر بھڑکیا۔
اَرْضٌ مَضْبَبَةٌ: زیادہ گوہ والی زمین۔ رَجَ مَضْبَابٌ.	ضَبْدٌ: (ن) ضَبْدًا: تراور گدر کھجوروں کو ملانا۔	ضَبْسٌ: (ن) ضَبْسًا عَلَيَّ الْغَرِيْمُ: قرضدار پر سختی سے تقاضا کرنا۔
المضباب: بخیل۔	ضَبْدَةٌ: غَصْبٌ آدِرْ جِزْوِي كُو يَادُو لَانَا.	ضَبْسَتٌ: (س) ضَبْسًا: نَفْسُهُ: جی کا گزنا اور ستلانا۔
ضَبًّا: (ف) ضَبًّا وَضَبْبُوَّةً ۱. الرَّجُلُ: زمین یا درخت سے چٹنا۔ صفت ضَبْبِيٌّ.....	ضَبْدٌ: (ن) ضَبْرًا: الْجَحَاذَةُ: تہیت رکھنا۔ السَّكْبُ: جمع کرنا یا بنڈل بنانا.....	الضَّبْسُ: بخیل۔
الصَّالِدُ: شکاری کا فریب دینے کے لئے چھپنا..... هَا لَازِضٌ: چھٹانا..... اِلَيْهِ: پناہ لینا..... مِنْهُ: شرم کرنا..... عَلَيَّ الْقَوْمُ:	ضَبْرًا وَضَبْرَانًا: الْفَرَسُ او الْمَقْبَدُ: ناگوں کو جمع کرنا اور کودنا۔	الضَّبْسُ: شیرے۔ کہا جاتا ہے "هُوَ ضَبْسٌ شَرٌّ" وہ برائی کا سانس ہے یعنی شر ہے۔ الضَّبْسُ: سخت مزاج۔ فریبی۔

الضَّبُّوَةُ. عِنْدَ الْعَامَةِ: تَمْبَاكُو كے لئے چمڑے کا بوہ اور صحیح لفظ الضَّبُّوَةُ ہے اور ممکن ہے کہ یہ ظَنِبَةُ کی تحریف ہو۔

المُضْبَاةُ: بھوبھل کی پکی ہوئی روٹی۔
المُضْبَاةُ: بھوبھل میں روٹی پکانے کا گڑھا۔
ضَجُّ (ض) ضَجًّا و ضَجِينًا و ضَجَّاجًا و ضَجَّاجًا: چیخنا۔ شور مچانا۔

أَضَجَّ اضْجَاجًا. القَوْمُ: چیخنا۔ شور مچانا۔
ضَجَّجَ. السَّرَجُلُ: جانا اور مائل ہونا۔
..... الطَّائِرُ وَنَحْوَهُ: زبردینا۔

ضَاجِحُهُ ضَجَّاجًا وَمُضَاجِحَةٌ: جھگڑا کرنا اور شور مچانا۔
الضَّجْحَةُ: چیخ پکار۔ شور۔

الضَّجَّاجُ: ہاتھ دانت۔ ایک قسم کا مہرہ۔
الضَّجَّاجُ: گوند جو کھایا جاتا ہے۔ ہر اس درخت کا پھل جو پرندوں یا درندوں کو بطور زہر کے دیا جائے۔

الضَّجُّوَجُ مِنَ النَّوْقِ: دودھ دوہتے وقت چلانے والی اونٹنی۔
الضَّجَّاجُ: بہت شور مچانے والا۔

ضَجْرٌ: (س) ضَجْرًا وَتَضَجْرُ. مِنْهُ: تنگ دل ہونا۔ بے قرار ہونا۔ زچ ہو جانا۔ صفت ضَجْرٍ۔

أَضَجْرَةٌ: ستانا۔ زچ کر دینا۔ بے قرار کر دینا۔ تنگ دل کر دینا۔

الضَّجْرُ: غم کی وجہ سے تنگ دلی۔ بے قراری۔
الضَّجْرُ: تنگ مکان۔

الضَّجْرَةُ: بے قراری۔ تنگ دلی۔
الضَّجْرُ وَالضَّجْرَةُ: بہت بے قراری۔ بہت تنگ دلی۔ بے قراری کرنے والا۔

تنگ دل کرنے والا۔ ج مَضَاجِرُ وَمَضَاجِيرُ۔
ضَجَّعَ (ف) ضَجَّعًا وَضَجَّوَعًا
وَأَضَجَّعَ وَأَضَجَّعًا: پہلو کے بل لیٹنا۔ ضَجَّعَ النَّعْمَ: ستارہ کا ڈوبنے کی طرف مائل ہونا۔

ضَبَّعَ وَضَبَّعًا: بے وقوف۔
ضَبَّطَ: (ن ض) ضَبَّطًا وَضَبَّاطَةً: لازم ہونا۔ غالب ہونا۔ قوی ہونا۔ خوب حفاظت کرنا۔
..... القَمَلُ: مضبوط کرنا۔
..... الكِتَابُ: صحیح کرنا۔ اعراب لگانا۔
..... عَلَيْهِ: گرفتار کرنا۔

الشَّيْءُ: بغل میں لینا۔
الضَّبَّعُ وَالضَّبَّعُ: بچو۔ لفظ مؤنث ہے۔ زرو مادہ دونوں پر اطلاق ہوتا ہے۔ ج ضَبَّاعَ وَأَضْبَعُ وَضْبَعُ وَضْبُوعَةٌ وَضْبَعَاتُ وَمَضْبَعَةٌ اور تفسیر ضبوع کی اَضْبَعُ۔ خلاف قیاس اور مادہ کے لئے ضبوعہ: کا استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی دو تسمیں مشہور ہیں۔ ضبوع مخططة: (دھاری دار) ضبوع رقطاء: (خال دار) اور ضبوع رقطاء مخططة: سے بڑا اور قوی ہوتا ہے۔

الضَّبَّعُ: بازو کا وسط۔ بازو۔ بغل۔
الضَّبَّعُ وَالضَّبَّعُ وَالضَّبَّعُ: جانب۔ کنارہ۔ ج اَضْبَاعُ۔
الضَّبَّعُ: قحط کا سال۔

الضَّبَّعُ وَالضَّبَّاعُ: دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا۔
الضَّبَّاعَانُ: نر۔ بچو۔ شئی۔ ضَبَّاعَانُ. ضَبَّاعَانَانُ: غلط ہے۔ ج ضَبَّاعِينِ مَوْنُثِ ضَبَّاعَانَةٍ ج ضَبَّاعِينِ وَضَبَّاعَاتَانِ۔

الضَّبَّاعُ: فاسق۔ مِنَ السَّخِيْلِ وَالْإِبِلِ: تیز دوڑنے والا۔ ج ضَبَّعُ۔
ضَبَّعَ (ن) ضَبَّاعًا: تنگ ہونا۔ صفت ضَبَّعٌ..... عِنْدَ الْهَدْيَةِ: ہدیہ کو روک دینا۔ منع کرنا۔ ضَبَّعَهُ: بغل اور پہلو کے درمیان اٹھانا۔

أَضْبَعُ وَأَضْبَعُ: بغل اور پہلو کے درمیان اٹھانا۔
الضَّبَّعُ: بغل اور پہلو کے درمیان کہا جاتا ہے "فَلَانٌ فِي ضَبَّعِ فَلَانٍ أَوْ ضَبَّعِهِ" یعنی فلاں آدمی فلاں کی پناہ میں ہے۔
الضَّبَّعَةُ وَالضَّبَّعَةُ وَالضَّبَّعَةُ: بال۔ بچ۔
الضَّبَّعَةُ وَالضَّبَّعَةُ: بیوی۔
الضَّبَّعُ وَالضَّبَّعُ: لہجہ۔

ضَبَّاعًا يَضْبَعُ ضَبَّاعًا. إِلَيْهِ: پناہ لینا۔ صفتہ النار: آگ کا بھون دینا اور متخیر کر دینا۔
أَضْبَعُ الشَّيْءُ: اٹھانا۔ روکنا۔ عَلَيْهِ: فتح مندی کے لئے جانچنا۔
الضَّبَّاعِيُّ: فاسق۔ راکھ۔

ضَبَّطَ الْأَرْضَ: زمین پر بارش ہونا۔
تَضَبَّطَ: زبردستی گرفتار کرنا۔ تَضَبَّطَ الضَّائِقُ: موٹا ہونا۔ تھوڑی سی گھاس کھانا۔
أَضْبَطَ: قابو میں آنا۔ مضبوط ہونا۔
الضَّبَّطُ: مہم۔ روک۔ گرفتاری۔

الضَّبَّاطُ: قوی۔ ہو شیار۔ حاکم۔ فوج کا جنرل۔ ج ضَبَّاطٌ..... وَالضَّبَّاطَةُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ: وہ قاعدہ کلیہ جو اپنے سارے جزئیات پر منطبق ہو۔
الضَّبَّاطِيَّةُ: واحد الضَّبَّاطِيَّةُ۔

حاکم کا لشکر جس سے مال کو جمع کرنے کی حفاظت کرنے اور مجرمین وغیرہ کو حکومت کے سامنے حاضر کرنے کی خدمت لی جاتی ہے۔
الضَّبَّاطُ وَالضَّبَّاطُ: شیر۔

ضَبَّعَ (ف) ضَبَّعًا وَضَبَّوَعًا وَضَبَّاعًا
الْبَيْعُ: اونٹ کا تیز دوڑنا اور اپنے پہلوؤں کو پھیلا نا۔
..... الْقَوْمُ الضَّلَّحُ: صلح کی طرف مائل ہونا۔ ضَبَّعَهُ ضَبَّعًا: مارنے کے لئے ہاتھ بڑھانا۔
..... الرَّجُلُ ظَلَمَ كَرَمًا..... عَلَى فَلَانٍ: بددعا کے لئے ہاتھ اٹھانا۔

ضَبَّعَ الرَّجُلُ: بزدل ہونا۔ ضَبَّعَتِ الْخَيْلُ وَالْإِبِلُ: چال میں پہلوؤں کو پھیلا نا۔
ضَابَعَهُ مُضَابَعَةً: ایک دوسرے کی طرف ٹکوار کا ہاتھ بڑھانا۔ الرَّجُلُ: مصافحہ کرنا۔
أَضْبَطَعَ: بازو دکھا کر کرنا۔ داہنی بغل سے چادر کو نکال کر بائیں کا دھے پڑنا۔

ضَابَعَهُ مُضَابَعَةً: ایک دوسرے کی طرف ٹکوار کا ہاتھ بڑھانا۔ الرَّجُلُ: مصافحہ کرنا۔
أَضْبَطَعَ: بازو دکھا کر کرنا۔ داہنی بغل سے چادر کو نکال کر بائیں کا دھے پڑنا۔

أَضَجَعَهُ: پہلو کے بل لٹانا..... الشئ: پست کرنا..... الحرف: حرف کا کسرہ کی طرف امانہ کرنا..... نحو القذ: بھری ہوئی گون کو خالی کر دینا۔

ضَجَعَتِ: الشَّمْسُ: غروب کے لئے مائل ہونا..... وَتَضَجَّعَ: فِي الْأَمْرِ: کوتاہی کرنا۔

ضَاجِعَةٌ: ساتھ لیٹنا۔ صفت مُضَاجِع: کہا جاتا ہے "ضَاجِعَةُ الْهَمِّ" یعنی اس کو ہم لازم ہے۔

تَضَاجَعَ: عَنِ الْأَمْرِ: غفلت کرنا۔ الضَّجِيعُ: بمص۔ ہر وہ چیز جس سے کپڑا دھویا جائے۔ صابون۔

الضَّجَعَةُ: صابون کا ایک ٹکڑا۔ ایک بار کا سونا۔ رائے کی کمزوری۔ آرام۔ راحت۔ الضَّجِيعُ: جھکاؤ۔ کہا جاتا ہے "ضَجَعَهُ إِلَيَّ" یعنی اس کا میلان میری طرف ہے۔

الضَّجَعَةُ: پہلو پر لیٹنے کی ہیئت۔ کاہلی۔ الضَّجَعَةُ: رائے کی کمزوری.....

وَالضَّجَعَةُ وَالضَّجِيعِيُّ وَالضَّجِيعِيُّ وَالضَّجِيعِيَّةُ وَالضَّجِيعِيَّةُ: بہت زیادہ لیٹنے والا۔ کاہلی۔

الضَّاجِعُ: فَا۔ لیٹنے والا۔ کاہل۔ وادی کا موڑ۔ وادی کا ڈھلوان۔ بے وقوف..... مِنَ الدَّوَابِّ: بے برکت جانور..... مِنَ النُّجُومِ: غائب ہونے کی طرف مائل ستارہ۔

ضَوَاجِعُ: رَجُلٌ ضَاجِعٌ: بہت زیادہ لیٹنے والا۔ کاہل۔ کہا جاتا ہے "أَزَاكُ ضَاجِعًا إِلَيْهِ" یعنی میں تم کو اس کی طرف مائل دیکھتا ہوں۔

الضَّاجِعَةُ: مَوْتٌ ضَاجِعٌ: نہر کا دھانہ۔ ٹیلہ۔ رَجٌ ضَوَاجِعٌ: وَالضَّاجِعَاءُ: زیادہ بکریاں۔

الضَّجُوعُ وَالْمَضْجُوعُ: کمزور رائے والا۔ الضَّجُوعُ: منکب جو لے جانے والے کو جھکا دے۔ کشادہ ڈول۔ پانی کی زیادتی سے آہستہ آہستہ چلنے والا بادل۔

الضَّجِيعُ: ساتھ لیٹنے والا۔ مَوْتٌ ضَاجِعَةٌ: الْمَضْجِعُ: خواب گاہ۔ رَجٌ مَضْاجِعُ: الْمَضْطَّجِعُ: خواب گاہ۔ مَضْاجِعُ الْغَيْثِ: بارش کی جگہ۔

ضَجِمَ (س) ضَجِمَا الْفَمُ أَوْ الْعُنُقُ: منہ یا گردن کا ٹیڑھا ہونا۔ جس کا ٹیڑھا ہو جائے اس کو اَضْجَمُ اور مَوْتٌ كَوْضَجْمَاءُ کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے "فِي فَمِهِ ضَجِمٌ" یعنی اس کے منہ میں کچی ہے۔

تَضَاجَمَ: الْفَمُ: منہ کا ٹیڑھا ہونا۔ الْأَمْرُ بَيْنَهُمْ: مختلف فیہ ہونا۔ الضَّجُّ: آفتاب کی روشنی۔ جس پر آفتاب کی روشنی پڑے۔

ضَخَّضَ وَتَضَخَّضَ: السَّرَابُ: سراب کا متحرک ہونا اور چمکتا۔ ضَخَّضَ الْأَمْرُ: ظاہر ہونا۔ الضَّخْضُخُ: تھوڑا پانی۔

الضَّخْضُخُ: تھوڑا پانی یا نایاب پانی۔ بہت آونٹ۔ ضَحِكَ (س) ضَحِكًا وَضَحْكًا وَضِحْجًا وَضِحْجًا: ہنسا۔ کہا جاتا ہے "ضَحِكَ مِنْهُ وَبِهِ وَعَلَيْهِ" اس نے کشادہ روئی کی اس طرح پر کردانت ظاہر ہو گئے۔

الْقِرْدُ: ہنڈر کا آواز کرنا..... السَّحَابُ: بادل کا چمکتا..... الطَّرِيقُ: راستہ کا ظاہر ہونا۔ ضَحِجَتِ الْأَرْضُ عَنِ النَّبَاتِ: اگانا..... الشَّيْبُ بِرَأْسِهِ: بڑھا یا ظاہر ہونا..... طَلَعَ النَّخْلَةُ: درخت خرما کا شگوفہ نکلنا..... ضَحِجْنَا الرَّجُلُ: تعجب کرنا۔

ضَاحِكُهُ: ایک دوسرے کے ساتھ ہنسا۔ ہنسی میں غالب آنا۔

أَضْحَكُهُ: ہنانا۔ أَضْحَكَ الْخَوْضُ: لہریز کر دینا۔

تَضَحَّكَ وَتَضَاحَكَ وَاسْتَضَحَّكَ: ہنسا۔ وَتَضَاحَكَ الرَّجُلُ: بخٹکھ ہنسا۔ تَضَاحَكَ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو ہنسانا۔ الضَّحْكَ: بمص۔ سفید دانت۔ گلی۔

ضَحَلَّ (ف) ضَحَلًا: الغَدِيرُ: تالاب کا پانی کم ہونا..... السَّمَاءُ: پانی کا پایاب ہو جانا۔ کہا جاتا ہے "مَا أَضْحَلَّ خَيْرٌ كَر" یعنی کس چیز نے تمہاری خیر و برکت کو کم کر دیا۔

الضَّحَلُ: پایاب پانی۔ رَجٌ ضَحَالٌ وَأَضْحَالٌ وَضَحُولٌ: المَضْحَلُ: وہ جگہ جہاں پانی کم ہو۔ ضَحَا يَضْحُو ضَحْوًا وَضَحْوًا وَضَحِيًا الرَّجُلُ: دھوپ کھانا..... الشئ: دھوپ کا لگنا..... الطَّرِيقُ: ظاہر ہونا۔ کہا جاتا ہے "ضَحَا ظِلُّهُ" یعنی مر گیا اور یہ ان کے قول "شَجَرَةٌ ضَاحِيَةٌ" (غیر سایہ دار درخت) سے ماخوذ ہے۔

ضَحِي يَضْحِي ضَحَا وَضَحَاءً: دھوپ لگنا۔ دھوپ کھانا۔ ٹھل جانا۔ ضَحِيَّتِ اللَّيْلَةُ: بے بادل ہونا۔

جھاگ۔ برف۔ درمیان راستہ۔ تعجب۔ شہد یا شہد مع موم کے۔ کھجور کا شگوفہ نکلنے سے نکلا ہوا۔

الضَّاحِكُ: فَا۔ ہنسنے والا۔ پہاڑ میں نہایت چمکتا ہوا پتھر۔ کہا جاتا ہے "لَهُ زَائِي ضَاحِكٌ" یعنی ظاہر ہے جس میں کوئی القیاس نہیں۔

الضَّاحِكَةُ: مَوْتٌ ضَاحِكٌ: دانت جو ہنسنے ہوئے ظاہر ہو جائیں۔ رَجٌ ضَوَاحِكُ: کہا جاتا ہے "الْفَتْرُغُنُ ضَوَاحِكُهُ" اس نے ہنسنے میں دانتوں کو ظاہر کیا۔

الضَّحْكَةُ وَالضَّحْكَةُ وَالضَّحَاكُ وَالضَّحُوكُ وَالْمَضْحَاكُ: بہت زیادہ ہنسنے والا۔ الضَّحُوكُ وَالضَّحَاكُ: درمیان۔ راستہ۔ الضَّحُوكُ: کی جمع ضُحُكُ.

الضَّحْكَةُ: جس آدمی پر لوگ ہنسیں۔ الضَّحْكَةُ: جو لوگوں پر ہنسنے۔ الْأَضْحُوكَةُ: وہ چیز جس پر ہنسی آئے۔ رَجٌ أَضْحَاكٌ.

ضَحَلَّ (ف) ضَحَلًا: الغَدِيرُ: تالاب کا پانی کم ہونا..... السَّمَاءُ: پانی کا پایاب ہو جانا۔ کہا جاتا ہے "مَا أَضْحَلَّ خَيْرٌ كَر" یعنی کس چیز نے تمہاری خیر و برکت کو کم کر دیا۔

الضَّحَلُ: پایاب پانی۔ رَجٌ ضَحَالٌ وَأَضْحَالٌ وَضَحُولٌ: المَضْحَلُ: وہ جگہ جہاں پانی کم ہو۔ ضَحَا يَضْحُو ضَحْوًا وَضَحْوًا وَضَحِيًا الرَّجُلُ: دھوپ کھانا..... الشئ: دھوپ کا لگنا..... الطَّرِيقُ: ظاہر ہونا۔ کہا جاتا ہے "ضَحَا ظِلُّهُ" یعنی مر گیا اور یہ ان کے قول "شَجَرَةٌ ضَاحِيَةٌ" (غیر سایہ دار درخت) سے ماخوذ ہے۔

ضَحِي يَضْحِي ضَحَا وَضَحَاءً: دھوپ لگنا۔ دھوپ کھانا۔ ٹھل جانا۔ ضَحِيَّتِ اللَّيْلَةُ: بے بادل ہونا۔

ضَحِي يَضْحِي ضَحَا وَضَحَاءً: دھوپ لگنا۔ دھوپ کھانا۔ ٹھل جانا۔ ضَحِيَّتِ اللَّيْلَةُ: بے بادل ہونا۔

ضَحِي يَضْحِي ضَحَا وَضَحَاءً: دھوپ لگنا۔ دھوپ کھانا۔ ٹھل جانا۔ ضَحِيَّتِ اللَّيْلَةُ: بے بادل ہونا۔

ضَحِي يَضْحِي ضَحَا وَضَحَاءً: دھوپ لگنا۔ دھوپ کھانا۔ ٹھل جانا۔ ضَحِيَّتِ اللَّيْلَةُ: بے بادل ہونا۔

ضَحِي يَضْحِي ضَحَا وَضَحَاءً: دھوپ لگنا۔ دھوپ کھانا۔ ٹھل جانا۔ ضَحِيَّتِ اللَّيْلَةُ: بے بادل ہونا۔

درمانِ حد ہے۔ الضَّرْبَانِ: بجلی کے دونوں پاٹ۔

الصَّارُ: نقصان پہنچانے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماءِ حسنیٰ میں سے ہے۔

الصَّرْوُزَةُ وَالصَّارُوزَةُ وَالصَّارُورُ وَالصَّارُوزَاءُ: حاجت۔ الصَّارُوزَةُ: بھتی ضرر۔

الصَّرَاةُ: اندھا ہونا۔ جانی و مالی نقصان۔

الصَّرِيضُ: اندھا۔ لاغر مریض۔ نقصان زدہ۔ جِاضِرَاءُ وَأَصْرَارُ: مؤنث صريرة۔ جِ صَرَابُورُ۔

الصَّرِيضُ: غیرت۔ مخالفت۔ صبر۔ وادی کا کنارہ۔ نفس۔ بقیہ جسم۔ صابر۔ کہا جاتا ہے "إِنَّهُ صَرِيضٌ وَذُو صَرِيضٍ عَلَى الشَّيْءِ" یعنی جب کہ صابر ہو "نَاقَةَ ذَاتِ صَرِيضٍ" یعنی دیر میں تھکنے والی۔

الصَّرْوُودِي: جس پر انسان کو مجبور کیا جائے۔ جس میں اختیار مسلوب ہو اور منطقیوں کی اصطلاح میں بمعنی بدیہی۔

التَّصْرُوةُ وَالتَّصْرُةُ: بد حالی۔

المُصْرَةُ: نقصان۔ جِ مَضَارُ۔

صَرَأُ (ف) صَرَأُ الشَّيْءُ: بجلی ہونا۔ چھینا۔

إِنصْرَأَتْ أَنْصْرَاءُ: الابلُ: اونٹوں میں موت کا واقع ہونا۔ الشَّجْرَةُ: درخت کا خشک ہونا۔

ضَرْبُ (ض) ضَرْبًا: متحرک ہونا۔

المِصْرُفِيُّ: رگ کا پھڑنا۔ الجُرْحُ: او

المِصْرُسُ: زخم یا داڑھ میں درد ہونا

..... العَقْرَبُ: بچھو کا ڈنک مارنا۔ اللَّيْلُ:

رات کا طویل ہونا۔ الزَّمَانُ: گزرتا۔

الطَّيْسُ: پرندہ کا خوراک کی تلاش میں جانا

..... ہ: مارنا۔ البَرْدُ: سردی لگنا۔ ضَرْبُ

الغَيْمَةِ: خیر قائم کرنا۔ ضَرْبَتِ العَنْكَبُوتِ

نَسِيحَتُهَا: بکڑی کا جالاتنا۔ ضَرْبُ الاجْتَلِ:

بدت مقرر کرنا۔ الممثل: مثال بیان کرنا

..... الدِّرْهَمُ: درہم پر شید لگانا۔ الخاتم:

انگوٹھی ڈھالنا۔ الصَّلَاةُ: نماز قائم کرنا

..... الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: بلانا۔ الحَاسِبُ

كَيْدًا فِى كَيْدًا: ضرب دینا۔ الجَزْبَةُ

عَلَيْهِمْ: جزیہ مقرر کرنا۔ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ:

ذلت کو لازم کر دینا۔ لَهُ سَهْمًا مِنْ قَالِهِ:

مال سے حصہ مقرر کرنا۔ عَلِيٌّ يَدُهُ: روک

دینا۔ القَاضِيُّ عَلَى يَدِهِ: قاضی کا کسی کو

تصرف سے منع کر دینا۔ ضَرْبٌ بِنَفْسِهِ

الْأَرْضُ: اقامت کرنا۔ سَفَرٌ كَرْنَا: فِى

النَّمَاءِ: تیرنا۔ يَبْنِيهِمْ: نساہد کر دینا۔

فَلَمَّا عَنِ فُلَانٍ: روک دینا۔ مَنَعٌ كَرْنَا:

بِيَدِهِ: اشارہ کرنا۔ عَنِ فُلَانٍ كَيْدًا: روک

لِينَا: الذَّهْرُ تَبْنِيْنَا: جدا کر دینا

..... بالقِدَاحِ: تیروں کو گھمانا۔ عَلِيٌّ أَدْبَهُ

سُنَّةً سَنَةً: منع کرنا۔ عَلِيٌّ المَكْتُوبُ: مہر

لگانا۔ فِى البُوقِ: بگل جمانا۔ إِلَيْهِ:

مائل ہونا۔ کہا جاتا ہے "ضَرْبَتْ عَنْهُ

صَفْحًا" یعنی میں نے اعراض کیا اور اس کو

چھوڑ دیا و "ضَرْبَتْ عَنْهُ جَزْوَتِي" میں

نے اس سے بے رغبتی کی اور اس سے باز رہا

و "ضَرْبٌ بِذِقْبِهِ الْأَرْضُ" یعنی بزدلی کی

اور خوف کیا و "ضَرْبٌ فِى الْأَرْضِ ضَرْبًا

و ضَرْبَانَا" تجارت یا غزوہ کے لئے سفر

کرنا۔

ضَرْبُ (س) ضَرْبًا: النباتُ: نباتات کا

سردی یا ہوا سے مرجھا جانا۔

ضَرْبَتِ: الْأَرْضُ: زمین پر کھرا پڑنا۔

ضَرْبُهُ: بہت مارنا۔ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: بلانا

..... المَطْلَعَةُ بِالخَيْوُوطِ: چھتری کو دھاگے

سے مضبوط کرنا۔ العَجَاذُ المُضْرَبَةُ:

درزی کا رضائی کو سینا۔ ضَرْبَتْ عَيْنُهُ:

آنکھوں کا دھنس جانا۔ ضَرْبٌ بَيْنَهُمْ: بھڑکا

دینا۔ فِى الْحَرْبِ: برا بھیت کرنا۔

ترغیب دینا۔ دلاور کرنا۔

ضَارِبُهُ مُضَارِبَةٌ وَضَرَابًا: ایک دوسرے پر

تواری مارنا۔ مارتے میں بڑھ جانا۔ ایک

دوسرے کو مارنا۔ ضَارِبُهُ وَضَارِبٌ لَهُ فِى

الْمَالِ وَبِالْمَالِ: کسی کے مال سے تجارت

کرنا اور قلع میں شریک ہونا۔

اضْرَبَ فِى الْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ سر

جھکانا۔ عَنْهُ: اعراض کرنا۔ الْقَوْمُ:

پالے سے ڈھک جانا۔ السُّخْبُرُ: پکانا۔ کہا

جاتا ہے "أَضْرَبَ جَأَشًا لِأَمْرٍ كَيْدًا" یعنی

اس نے فلاں کام پر اپنے آپ کو مستقل کر

لیا۔

تَضْرَبُ: الشَّيْءُ: متحرک ہونا۔ مَوْجٌ مَارًا:

تَضْرَبُ: الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو مارنا۔

أَضْطَرَبَ: متحرک ہونا۔ مَوْجٌ مَارًا: ایک

دوسرے کو مارنا۔ الْأَمْرُ: خلل پڑیر ہونا۔

الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو مارنا۔ فِى أَمْرِهِ:

متردد ہونا۔ کہا جاتا ہے اضْطَرَبَ خَيْلُهُمْ:

یعنی ان کا کھد مختلف و متفرق ہو گیا۔ مَنَ

كَيْدًا: تھک دل ہونا۔ فُلَانٌ: حصہ مقرر

کرنے کا سوال کرنا۔ کہا جاتا ہے

"أَضْطَرَبْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ" یعنی میں

نے سونے کی انگوٹھی بنانے کے لئے کہا۔

إِسْتَضْرَبَ: العَسَلُ: شہد کا سفید اور گاڑھا

ہونا۔

الضَّرْبُ: مثل۔ شکل۔ قسم۔ جِ أَضْرَابِ

خَفِيفِ بَارَشٍ: کہا جاتا ہے "مَطْرٌ ضَرْبٌ"

ایسا آدمی جس کی مار کا نشان باقی رہے۔

فِى العُرُوضِ: جن عروض کی اصطلاح میں

شعر کے مصرعے جانی کا آخری جز۔ جِ

ضُرُوبٌ وَأَضْرَابٌ: وَأَضْرَبْتُ: دِرْهَمٌ

ضَرْبٌ: شہد لگا ہوا درہم۔ ذَارُ الضَّرْبِ:

نکال۔

الضَّرْبُ وَالضَّرْبُ: سفید گاڑھا شہد۔

الضَّرْبَةُ: اسم مرۃ۔ دفعتاً واحدہ۔ کہا جاتا ہے

"لَا أَخَذَ مَالِي عَلَيْكَ إِلَّا ضَرْبَةَ

وَاجِلَةٍ" یعنی میرا مال جو تمہارے ذمہ ہے

اس کو ایک ہی دفعہ لوں گا۔ آفت۔ فساد۔

الضَّرْبَانِ: مصل۔ ضَرْبَانِ الذَّهْرِ: زمانے

کے حوادث۔

الضَّرْبُ وَالضَّرْبُ: مارنے والا۔

الضَّرْبَابُ: زیادہ مارنے والا۔

الضَّارِبُ: فاپست جگہ۔ جس میں درخت ہوں۔ وادی کے مشابہ۔ تاریک رات جس کی تاریکی محیط ہو۔ نَجَّضَ الضَّوَارِبَ: الطَّنْبُرُ الضَّوَارِبُ: خوراک تلاش کرنے والے پرندے۔

الضَّرْبُ: مارنے والا۔ نَجَّضَ الضَّرْبَاءَ: پٹا ہوا۔ نَجَّضَ الضَّرْبِيَّ: قسم۔ مثل۔ شکل۔ حصہ۔ آدمی کی ہیئت۔ برف پالا۔ نَجَّضَ الضَّرَابَ:

الضَّرْبِيَّةُ: طبیعت۔ عادت۔ کہا جاتا ہے "هَذِهِ ضَرْبِيَّةٌ اَلَّتِي ضَرَبَ عَلَيْهَا" یعنی یہ اس کی عادت ہے جس پر وہ پیدا کیا گیا ہے۔

تلوار سے مارا ہوا۔ بدن کا وہ حصہ جہاں مار واقع ہو۔ جزیرہ۔ مِّنَ السَّيْفِ: دھار۔ مِّنَ الضُّوْفِ وَنَحْوَهُ: اُدُنْ يَارُوئِي كِي پوئی۔ نَجَّضَ الضَّرَابَ:

الضَّرْبُ: مارنے کی جگہ یا وقت۔ اصل (.....) وَالضَّرْبُ: تلوار یا اس کی دھار۔ ہڈی جس میں گودا ہو۔ نَجَّضَ الضَّرَابَ:

الضَّرْبُ وَالضَّرَابُ: مارنے کا اوزار۔ زخم۔ بہت مارنے والا۔ الضَّرْبُ: بڑا خمیر۔ نَجَّضَ الضَّرَابَ:

الضَّرْبُ وَالضَّرْبِيَّةُ مِنَ الْحَيَاتِ: غیر متحرک سانپ۔ مَضْرِبَةُ السَّيْفِ وَمَضْرِبَتُهُ: تلوار کی دھار۔

بَسَاطُ مَضْرِبٍ: سلا ہوا بچھونا۔ الْمَضْرِبَةُ: دلائی۔ رضائی۔ ضَرَجَ: (ن) ضَرَجًا: الشَّيْءُ: پھاڑنا۔

الضَّرْبُ بِالدَّمِ: خون میں تھیننا۔ الشَّيْءُ إِلَى الْأَرْضِ: ڈالنا۔ ضَرَجَهُ: تھیننا۔ ضَرَجَ الضَّرْبُ: سرخ رنگنا جو گلابی سے کچھ زائد ہو۔ الانْفِ بِالدَّمِ: خون آلود کر دینا۔ الْكَلَامُ:

آراستہ کرنا۔ الْإِبِلُ: لوٹ میں دوڑانا۔ ضَرَجَ وَأَضْرَجَ: الجَبِيبُ: لٹکانا۔ تَضَرَّجَ: پھٹنا۔ الزَّهْرُ: پھول کا کلہنا۔

الشَّيْءُ: لت پت ہونا۔ الضَّرْبُ: رخسارہ کا سرخ ہونا۔ الضَّرْبَةُ: عورت کا بناؤ سنگھار کرنا۔

انضرج: پھٹنا۔ لَنَا الطَّرِيقُ: کشادہ ہونا۔ مَابَيْنَ الْقَوْمِ: دوری ہونا۔

انضرجت العقاب: شکار پر ٹوٹ پڑنا۔ الضَّرْبُ: ہلکا سرخ رنگا ہوا۔ عَذُوْ ضَرْبِيَّ: تیز دوڑ۔

الاضربج: زرد رنگ کی چادر۔ سرخ ریشم۔ سرخ رنگ۔ تیز دوڑنے والا گھوڑا۔ المضرج: برانا مستعمل کپڑا۔ نَجَّضَ الضَّرَابَ:

المضارج: مشتیں۔ عَيْنٌ مَضْرُوجَةٌ: بڑی خوبصورت آنکھ۔ الضَّرَجُ: چیتا۔ نَجَّضَ الضَّرَابَ:

ضَرَجَ (ف) ضَرَجًا: الشَّيْءُ: پھاڑنا۔ علیحدہ کرنا۔ دفع کرنا۔ کہا جاتا ہے "ضَرَجَ شَهَادَةَ فَلَانٍ عَنِّي" یعنی فلاں کی شہادت کو رد کر دیا۔ "ضَرَحْتُ عَنِّي الْقَوْمَ" میں نے

کپڑے کو اتار دیا۔ الْقَبْرُ: قبر کھودنا۔ ضَرَجَ لِلْمَيِّتِ: میت کے لئے صندوقی قبر بنانا۔ ضَرَحْتُ (ن) ضَرُوحًا وَضَرَجًا:

السُّوقُ: کساد بازاری ہونا۔ ضَرَجًا وَضَرَجًا: الذَّائِبَةُ بِرَجْلَيْهَا: دوڑتی مارنا۔ ضَارَحَهُ: ایک دوسرے کو گالی دینا۔ تیر

مارنا۔ قَرِيبٌ هُوَ أَوْ مَقَابِلٌ هُوَ: أَضْرَحَهُ: قاسد کرنا۔ دور کرنا۔ أَضْرَحَ السُّوقُ: کساد بازاری کرنا۔

انضرج: الشَّيْءُ: پھٹنا۔ مَابَيْنَ الْقَوْمِ: دوری ہو جانا۔ تعلقات کا ختم ہو جانا۔ اضطرخ: الشَّيْءُ: ڈال دینا۔ پھینک دینا۔ الضَّرَاحُ: چوتھے آسمان میں ہے بیت المعمور۔

الضَّرْحُ: مہم۔ کھال۔ ڈوری۔ وحشت۔ الضَّرْحُ: خراب آدمی۔ نِيَّةُ ضَرْحٍ: ڈوب دراز کا ارادہ۔

الضَّرُوحُ مِنَ الدَّوَابِّ: دوڑتی مارنے والا جانور۔ قَمُوسٌ ضَرُوحٌ: زور سے پھینکنے والی

کمان۔

الضَّرْبُ: دور۔ قبر۔ نَجَّضَ الضَّرَابَ: الضَّرْبُ وَالْمَضْرَجِيَّ: شکرہ۔ لَبَّ ذِيئِي كَالْغَدَاةِ: الضَّرْبُ جِيَّ: فِياضِ سِرْدَارِ: سفید چیز۔

ضَرَسَ (ض) ضَرَسًا: الشَّيْءُ: ڈاڑھ سے سخت کاٹنا۔ کہا جاتا ہے "ضَرَسَهُ الدَّهْرُ" یعنی زمانہ نے اس پر مصیبت ڈالی۔ "ضَرَسَهُ الخَطُوبُ" حوادث نے اس کو پھیل دیا۔ ضَرَسَ البُسْرُ: پتھروں سے کنوئیں کا من بنانا۔ السَّرْجُلُ: رات تک خاموش رہنا۔

ضَرَسْتُ (س) ضَرَسًا: الأَسْنَانُ: دانت کھٹے ہونا۔ ضَرَسَهُ: الزَّمَانُ: زمانہ کا سخت ہونا۔ ضَرَسَهُ الحُرُوبُ وَالْأَيَّامُ: تجربہ کار کر دینا۔

أَضْرَسَ: السَّخَابِضُ: الأَسْنَانُ: تڑخی کا دانتوں کو کھٹا کر دینا۔ ہ: رنجیدہ کرنا۔ ہ: بالکل کلام: خاموش کر دینا۔ ضَارَسَهُ: لڑائی کرنا۔ دشمنی کرنا۔ ضَارَسَ الأُمُورَ: تجربہ کرنا اور پہچاننا۔

تَضَارَسَ: القَوْمُ: ایک دوسرے سے دشمنی کرنا۔ ایک دوسرے سے جنگ کرنا۔ البناء: ناموار ہونا۔

الضَّرْسُ: ڈاڑھ کے دانت۔ نَجَّضَ الضَّرَابَ: الضَّرْبُ: شکرہ۔ نَجَّضَ الضَّرَابَ: الضَّرْبُ جِيَّ: فِياضِ سِرْدَارِ: سفید چیز۔

الضَّرْبُ جِيَّ: فِياضِ سِرْدَارِ: سفید چیز۔ الضَّرْبُ جِيَّ: فِياضِ سِرْدَارِ: سفید چیز۔ الضَّرْبُ جِيَّ: فِياضِ سِرْدَارِ: سفید چیز۔

الضَّرْبُ جِيَّ: فِياضِ سِرْدَارِ: سفید چیز۔ الضَّرْبُ جِيَّ: فِياضِ سِرْدَارِ: سفید چیز۔ الضَّرْبُ جِيَّ: فِياضِ سِرْدَارِ: سفید چیز۔

الضَّرْبُ جِيَّ: فِياضِ سِرْدَارِ: سفید چیز۔ الضَّرْبُ جِيَّ: فِياضِ سِرْدَارِ: سفید چیز۔ الضَّرْبُ جِيَّ: فِياضِ سِرْدَارِ: سفید چیز۔

الضَّرْبُ جِيَّ: فِياضِ سِرْدَارِ: سفید چیز۔ الضَّرْبُ جِيَّ: فِياضِ سِرْدَارِ: سفید چیز۔ الضَّرْبُ جِيَّ: فِياضِ سِرْدَارِ: سفید چیز۔

الضَّرْبُ جِيَّ: فِياضِ سِرْدَارِ: سفید چیز۔ الضَّرْبُ جِيَّ: فِياضِ سِرْدَارِ: سفید چیز۔ الضَّرْبُ جِيَّ: فِياضِ سِرْدَارِ: سفید چیز۔

الضَّرْبُ جِيَّ: فِياضِ سِرْدَارِ: سفید چیز۔ الضَّرْبُ جِيَّ: فِياضِ سِرْدَارِ: سفید چیز۔ الضَّرْبُ جِيَّ: فِياضِ سِرْدَارِ: سفید چیز۔

<p>الاضْرَعُ: لاغر۔ کمزور۔ چھوٹا۔ الضَّرْعُ: مشابہ۔ افعال میں سے ایک فعل ہے جو حال اور استقبال پر دلالت کرتا ہے اور ماضی کے سینے پر حرف (التین) میں سے ایک حرف بڑھانے سے بنتا ہے۔ علم عروض کی ایک بحر کا نام۔ ضَرَعَمَ وَتَضَرَعَمَ: شیر جیسا کام کرنا۔ شیر کے مشابہ ہونا۔ الضَّرْعَمُ: شیر۔ ج ضَرَاغِمُ۔ الضَّرْعَامُ وَالضَّرْعَامَةُ: شیر۔ بہادر۔ قوی۔ الضَّرْفُ: عِنْدَ الْعَامَةِ: گھی تیل وغیرہ کے لئے چمڑے کا برتن اور صواب ظرف ہے اور اس کے مرادف زق ہے۔ الضَّرْفَةُ: کثرت۔ ضَرَفَطَهُ: بِالْحَتْبِلِ: رسی سے باندھنا۔ مضبوط کرنا۔ ضَرُوكُ: (ک) ضَرَاكَةٌ: بے وقوف ہونا۔ الضَّرِيكُ: احمق۔ اندھا۔ لجا۔ بد حال فقیر۔ مذکر گدھ۔ ج ضَرَايِكُ وَضَرَاكَاءُ۔ الضَّرَاكُ: مونا آدی۔ مضبوط تووانا آدی۔ شیر۔ ضَرِمٌ: (س) ضَرَمًا: بھوک یا غصہ سے بھڑکنا۔ ضَرَمَتِ النَّارُ: آگ کا مشتعل ہونا۔ عَلِيَّهِ: غصہ سے بھڑک اٹھنا۔ الطَّعَامُ: کھانے کو بالکل صاف کر دینا اور کچھ نہ چھوڑنا۔ اضْرَمَ وَضَرَمَ: اضْطَرَمَ النَّارُ: آگ روشن کرنا۔ مشتعل کرنا۔ بھڑکانا۔ اضْطَرَمَتْ وَتَضَرَمَتِ النَّارُ: مشتعل ہونا۔ تَضَرَمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ: غصہ سے بھڑک اٹھنا۔ اضْطَرَمَ الْمَشِيْبُ: بڑھا پا آ جانا۔ الضَّرْمُ وَالضَّرْمُ: ایک خوشبودار درخت جس کا پھل بلوط کے مانند اور پھول ستر کے مانند ہوتا ہے۔ الضَّرْمُ: عقاب کا بچہ۔ الضَّرْمُ: بھوک کی وجہ سے غصہ۔ ایندھن۔</p>	<p>غروب ہونے کے قریب ہونا۔ ضَرَعُ: (ن) ضَرَعًا: قَرَسَهُ: سدھانا۔ ضَرَعُ: (ف) ضَرَاعَةٌ وَضَرِعُ: (س) ضَرَعًا وَضَرِعُ: (ک) ضَرَاعَةٌ: کمزور ہونا۔ اَلَيْسَ: فروتنی کرنا۔ صفت ضَارِعٌ وَضَرِعٌ: ج ضَارِعُونَ وَضُرُوعٌ وَضَرَعَةٌ: ضَرَعٌ: مَن فُلَانٌ: چپکے چپکے قریب آنا۔ ضَرَعَتِ الشَّمْسُ: غروب ہونا یا غروب ہونے کے قریب ہونا۔ القَلْدُرُ: ہانڈی کا پکنے کے قریب ہونا۔ ضَرَعُ الرَّبِّ: شیرہ کا اچھی طرح نہ پکنا۔ ضَارَعُهُ: مشابہ ہونا۔ ضَارَعَتِ الشَّمْسُ: آفتاب کا ڈوبنے کے قریب ہونا۔ القَلْدُرُ: ہانڈی کا پکنے کے قریب ہونا۔ اضْرَعَتِ الشَّاةُ: بکری کے تھن کا ظاہر ہونا یا بڑا ہونا۔ صفت ضَرَعَاءُ وَضُرُوعٌ وَضَرِيْعٌ وَضَرِيْعَةٌ: بچہ کی پیدائش سے پہلے بکری کا دودھ اُترنا۔ اضْرَعُ الرَّجُلُ: ذلیل کرنا۔ لِسْفَلَانٍ مَبَالًا: کسی کے لئے مال خرچ کرنا۔ الخُمِيُّ فُلَانًا: کمزور کر دینا۔ مثال ہے الخُمِيُّ اضْرَعْتَنِي لِلنُّومِ: اس شخص کے بارے میں کہتے ہیں جو حاجت کے وقت ذلت برداشت کرے۔ اضْرَعْتَهُ الْحَاجَةُ إِلَى فُلَانٍ: مجبور کر دینا۔ تَضَرَعُ: ذلیل ہونا۔ چپکے چپکے قریب آنا۔ اَلَيْسَ النَّهْيُ: عاجزی سے دعا کرنا۔ الظَّلُّ: سامنے کا سمتنا۔ تَضَارَعَا: ایک دوسرے کے مشابہ ہونا۔ اسْتَضَرَعُ: لَهُ: انکساری کرنا۔ ذلیل ہونا۔ الضَّرْعُ: بھن۔ ج ضُرُوعٌ۔ الضَّرْعُ: مثل۔ رسی کی لٹ۔ ج ضُرُوعٌ۔ الضَّرْعُ: بھن۔ کمزور۔ بزدل۔ کہا جاتا ہے "زَجَلُ ضَرَعٍ وَقَوْمُ ضَرَعٍ"۔ الضَّرَاعُ: لاغر۔ کمزور۔ چھوٹا۔ الضَّرْعَاءُ وَالضَّرِيْعَةُ: مِنَ الشَّاءِ وَالْبَقَرِ: بڑے تھن والی۔ الضَّرُوعُ: بڑے تھن والی۔ عاجز و ذلیل۔</p>	<p>کپڑا جس پر دانت کی طرح نقش و نگار بنے ہوں۔ کہا جاتا ہے "فِي الْيَاقُوْتَةِ تَضَرِيْسٌ" یا قوت میں ناہمواری۔ ج تَضَارِيْسُ: تَضَارِيْسُ الْأَرْضِ: زمین میں دانت کے مانند ٹنگی ہوئی بلندیاں۔ الضَّرْضُمُ: شیر۔ نروردے۔ ضَرَطُ: (ش) ضَرَطًا وَضَرِيْطًا وَضَرَاطًا وَضَرِيْطًا: گوز کرنا۔ ضَرِيْطُ: (س) ضَرَطًا: ہلکی ڈاڑھی اور پاریک ابرو والا ہونا۔ صفت اضْرَطُ۔ ضَرَطٌ وَأَضْرَطُ: الجَمَارُ: بہت گوز کرنا۔ ضَرَطٌ وَأَضْرَطُ: الجَمَارُ: گدھے سے اتنا کام لینا کہ گوز نکل پڑے۔ "ضَرَطٌ وَأَضْرَطٌ بِفُلَانٍ" شخص کے طور پر گوز کی آواز مندے نکالنا۔ مِضْرَطُ الْحِجَازَةِ: حیرت کے بادشاہ عمرو بن بند کا لقب۔ الضَّرَاطُ وَالضَّرُوْطُ وَالضَّرِيْطُ: گوز کرنے والا۔ زیادہ گوز کرنے والا۔ الضَّرِيْطُ: مونا۔ کہا جاتا ہے "كَبِيْشٌ ضَرِيْطٌ وَنَعْبَةٌ ضَرِيْطَةٌ" اشتر عرب میں سے ہے "الْأَخَذُ سُرِيْطًا وَالْقَضَاءُ ضَرِيْطٌ يَا يَا الْأَخَذُ سُرِيْطِي وَالْقَضَاءُ ضَرِيْطِي يَا الْأَخَذُ سُرِيْطِي وَالْقَضَاءُ ضَرِيْطِي يَا الْأَخَذُ سُرِيْطَاءُ وَالْقَضَاءُ ضَرِيْطًا" یعنی قرض کو لے کر ٹنگل لیتا ہے اور ادا کرنے میں گوز کرتا ہے۔ أَوْذَى الْبَعِيْرِ إِلَّا ضَرَطًا: مثال ہے اس شخص کے حق میں بولتے ہیں جو ذلیل و خوار ہو گیا ہو اور سب کچھ ضائع ہو گیا اور جو باقی رہا ہو اس سے کچھ نفع حاصل نہ ہو۔ اضْرَطًا وَأَنْتَ الْأَعْلَى: مثال ہے قوی کے لئے جو باوجود قدرت کے کمزور سے دبا ہو۔ الضَّرَاطُ وَالضَّرِيْطُ: گوز۔ الضَّرِيْطُ: بڑے پیٹ والا۔ ضَرَعُ (ن) ضَرُوعًا: مِنَ الشَّيْءِ: قریب ہونا۔ الشَّمْسُ: آفتاب کا غروب ہونا یا</p>
--	--	--

اسی سے مثال ہے "تَفَعَّتْ فِي غَيْرِ ضَرَمٍ" جبکہ بے فائدہ کام کرے۔

الضَرِيمُ: بھوکا۔ عقاب کا بچہ۔ تیز دوڑنے والا گھوڑا۔

الضَرَمَةُ: چنگاری۔ آگ۔ جِ ضَرَمَ کہا جاتا ہے "مَالِي الذَّارِ نَالِحِ ضَرَمِيَّةٍ" یعنی گھر میں کوئی نہیں۔

الضَرَامُ: بھڑک۔ جلن۔ کھورا۔ چھٹی۔ کشادہ زمین۔

الضَرَامَةُ: بکڑی جو مشتعل ہو۔ بطم کا درخت۔

الضَرِيمُ: جلا ہوا۔

الضَرِيمُ: ایک درخت کا گوند۔

ضَرًا يَضُرُّ وَضُرًا: العرقی: رگ کا خون بہانا جو بند نہ ہو..... الزَجْلُ: چھپنا۔

ضَرِي يَضْرِي ضَرَاةً وَضَرِي ضَرِيًا وَضَرَاءَةٌ بِالشَّيْ: حریص ہونا..... ضَرِي وَضَرَاءٌ وَضَرَاءٌ (الْكَلْبُ بِالصَّيْدِ: کتے کا شکار پر خورگ ہونا مع گوشت خون کے چٹ کر جانا۔ صفت ضَرِي وَضَرِيًا: مَوْتِ ضَرِيًا: جِ ضَوَارٍ: ضَرِي النَبِيذِ: جھاگ والا ہونا۔

ضَرِي وَاضْرِي. الْكَلْبُ بِالصَّيْدِ: شکار پر کتے کو بھڑکانا۔ اضْرِي الرَّجُلُ: جھاگ والی

نہید پینا۔

اِسْتَضْرِي. لِلصَّيْدِ: شکاری کو بے خبری میں پکڑنا۔

الضَرَاءُ: مِصْرٌ۔ مِخَانٌ درخت۔ وسیع میدان۔ پوشیدگی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ يَمْشِي الضَّرَاءُ" یعنی وہ درختوں میں چھپ چھپ کر چل رہا ہے۔

الضَرِي: مِصْرٌ۔ لَزَائِي کی شدت۔

الضَرِي: شکار کا عادی کتا۔ مَوْتِ ضَرِيًا: جِ ضَرَاءٌ وَاضْرِي: ایک قسم کا درخت۔

الضَرِي: ایک قسم کی نہید۔

الضَرِي: جمع ضَرِي..... مِنْ الْخِيَرَاتِ: درندے جیسے شیر چیتا وغیرہ۔

ضَرِي يَضْرِي ضَرِيًا. الْعَرَقُ بِالذَّمِّ: رگ

کا خون بہانا۔ صفت ضَرِي.

ضَرِي: (س) ضَرِيًا: بدخلق ہونا۔

اضْرِي عَلَيْهِ: بخل کرنا۔ اضْرِيًا: پینا۔

الاضْرِي: بدخلق۔ تنگ جڑے والا۔ وہ شخص جس کے اوپر نیچے کی ڈاڑھیں مل گئی ہوں

جس کی وجہ سے صاف گفتگو نہ کر سکے۔ جِ ضَرِيًا: ضَرِيًا: غصناک۔

ضَرِيًا: (ن ض) ضَرِيًا: جو چاہتا ہے وہ نہیں بلکہ جو کچھ ہاتھ میں ہو اس پر قبضہ کر لیتا۔

تَضَارِيًا: الْقَوْمُ: آپس میں ایک دوسرے سے لینا دینا اور غلبہ کرنا۔

الضَرِيَانُ: قَابِلٌ اِسْتِبْرَاهِمَانَ. آل واولاد۔ شرکاء۔ پانی لیتے ہوئے جھگڑا کرنے والا۔

ضَعْفُهُ: زمین تک ڈھالنا۔

تَضَعُّعٌ: فروتنی کرنا۔ ذلیل ہونا۔ ضَعْفٌ: ہوتا۔ مریض یا غم کی وجہ سے ڈبلا ہونا.....

ضَعْفٌ: کم ہونا۔ کہا جاتا ہے "تَضَعُّعٌ بِهِ الدُّهْرُ" یعنی زمانہ نے اس کو ذلیل کر دیا۔

الضَعْفُ وَالضَعْفَانُ: کمزور۔ بغیر رائے اور تدبیر کا آدمی۔

الضَعْفَانُ: کمزور۔ جِ ضَعْفَانِي. الضَعْفُوفُ: کمزور۔

الضَعْفِيُّ: کمزور۔ جِ ضَعْفَانِي وَضَعْفَانِي. وَضَعْفَةٌ وَضَعْفِي مَوْتِ ضَعْفِيًا. الضَعْفِيُّ مِنَ الْكَلَامِ: درجہ نفاحت سے گرا ہوا کلام۔

الضَعْفَانُ: مِنَ الدَّرُوعِ: ایسی زرہ جس کے حلقے دہرے دہرے ہوں۔

أَرْضٌ مُضَعَّفَةٌ: زمین جس پر ہلکی بارش ہوئی ہو۔

ضَعْفَةٌ: دوچند کرنا۔ کمزور کرنا۔

ضَعْفُ الْحَدِيثِ: ضعف کی طرف نسبت کرنا..... وَتَضَعْفُهُ وَاسْتَضَعْفُهُ: ضعیف سمجھنا۔

أَضَعَفَهُ: دوچند کرنا۔ کمزور کرنا۔ صفت مفعولی مُضَعَّفٌ: قیاس کے مطابق مُضَعَّفٌ: ہونا چاہے تھا اور یہ ایسا ہی ہے

جیسے "أَسْعَدَهُ اللَّهُ" سے مَسْفُودٌ: نہ کہ مُسْعَدٌ. أَضَعَفَ الرَّجُلُ: کمزور جانور کا مالک ہونا۔

ضَاعَفَهُ: دوچند کرنا۔

تَضَاعَفَ: دوچند ہونا۔

الضَّعْفُ وَالضَّعْفُفُ: کمزوری۔

ضِعْفٌ الشَّيْ: دوچند اور یا دوچند سے زیادہ جو غیر محصور ہے پس ان کے قول "لَكَ ضِعْفُهُ" کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لئے دوچند یا سہ چند یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ جِ ضِعْفَانِي أَضْعَافُ الْكِتَابِ: کتاب کی سطور کا فاصلہ۔ الاَضْعَافُ مِنَ الْعَجَسِدِ: اعضاء جسم یا ہڈیاں۔

الضَّعْفُ: کمزوری۔ عقل ورائے کی کمزوری۔

مُضَاعَفٌ عَدَدٌ صَحِيحٌ: ایک عدد صحیح کو دوسرے صحیح عدد میں ضرب دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔

مُضَاعَفٌ أَضْفَرٌ: ضرب دینے کے بعد سب سے چھوٹا عدد جو پورا پورا تقسیم ہو جائے۔

مضاعف مشترک جو کسی پر تقسیم ہو جائے۔

الضَّعْفَانُ: کمزور۔ جِ ضَعْفَانِي. الضَّعُوفُ: کمزور۔

الضَّعِيفُ: کمزور۔ جِ ضَعْفَانِي وَضَعْفَانِي. وَضَعْفَةٌ وَضَعْفِي مَوْتِ ضَعْفِيًا. الضَّعِيفُ مِنَ الْكَلَامِ: درجہ نفاحت سے گرا ہوا کلام۔

الضَّعْفَانُ: مِنَ الدَّرُوعِ: ایسی زرہ جس کے حلقے دہرے دہرے ہوں۔

أَرْضٌ مُضَعَّفَةٌ: زمین جس پر ہلکی بارش ہوئی ہو۔

ضَعْفَةٌ: دوچند کرنا۔ کمزور کرنا۔

ضَعْفُ الْحَدِيثِ: ضعف کی طرف نسبت کرنا..... وَتَضَعْفُهُ وَاسْتَضَعْفُهُ: ضعیف سمجھنا۔

أَضَعَفَهُ: دوچند کرنا۔ کمزور کرنا۔ صفت مفعولی مُضَعَّفٌ: قیاس کے مطابق مُضَعَّفٌ: ہونا چاہے تھا اور یہ ایسا ہی ہے

جیسے "أَسْعَدَهُ اللَّهُ" سے مَسْفُودٌ: نہ کہ مُسْعَدٌ. أَضَعَفَ الرَّجُلُ: کمزور جانور کا مالک ہونا۔

ضَاعَفَهُ: دوچند کرنا۔

تَضَاعَفَ: دوچند ہونا۔

الضَّعْفُ وَالضَّعْفُفُ: کمزوری۔

الضغيف: ترونازگی۔

الضغيفة: سرسبز باغ۔ فراخ دستی کی

زندگی۔ پتلا غیر۔ لوگوں کی مختلط جماعت۔

ضَغَب: (ف) ضَغْبًا: بھیڑیے یا خرگوش

کی طرح آواز کرنا۔ گھبرا دینا۔

الضغيب والضغاب: خرگوش اور بھیڑیے

کی آواز۔

الضغوبوس: لومڑی کا بچہ۔ کمزور مرد۔ لکڑی

کھیرا۔ ہیلون کی مانند ایک سبزی۔ ج

ضغابيس.

ضَغَتْ (ف) ضَغْنَا. الحَدِيثُ: ملانا۔

کپڑے کو دوہونا اور صاف نہ کرنا..... الشئ:

جمع کرنا۔

أَضَعْتُ. الحَالِمُ الرُّؤْيَا: خواب کو شک سے

بیان کرنا۔

ضَغْتُ. النَّبَاتُ: سبزی کا مٹھانا۔

إِضْطَغْتُ. الحَطْبُ: لکڑی کو اکٹھا کرنا۔

الضغْتُ: ترونازگھاس کا مٹھا۔

..... مِنَ السَّخْبِ وَالْأَمْرِ: مخلوط باتیں جن کی

کوئی حقیقت نہ ہو۔ ج أَضْغَاتُ. أَضْغَاتُ

أَحْلَامٍ: گڑبڑ خواب جن کی کوئی تعبیر نہ دی جا

سکے۔

كَلَامٌ ضَغْتُ وَضَغْتُ: ایسی گفتگو جس میں

کوئی خیر نہ ہو۔

التَضغِيفُ: بارش سے تر زمین یا نباتات۔

ضَغَطَةُ (ف) ضَغَطًا وَأَضْغَطُهُ: بھیجنے۔

بھیڑ کرنا۔ تنگی کرنا۔

ضَاغَطُهُ ضِغَاطًا وَمُضَاغَطَةً: ایک

دوسرے کو بھیجنے۔ تنگی کرنا۔

تَضَاغَطُوا: تنگی کرنا۔

إِنْضَغَطُ: مغلوب ہونا۔

إِضْطَغَطَ. عَلَيْهِ: تاوان وغیرہ میں سختی

کرنا..... اور قیاس کے مطابق اضطغَطُ

ہے۔

الضغطة: تنگی۔ کہا جاتا ہے "أَخَذْتُ فَلَانًا

ضغطةً" جبکہ تم تنگی کرو تا کہ کسی شے پر مجبور

کرو۔ شدت۔ مشقت۔

الضغطة: قہر۔ تنگی۔ مجبوری۔ ضغطة القبر:

برائے جنت کرنا۔

فشار قبر۔

الضاغط: قا۔ نگہبان۔ امانت دار۔

الضاغوط: کا بوس (ایک قسم کی بیماری)

الضغيط: کمزور رائے والا۔ ج ضغطي:

مؤنث ضغيطة.

المضغط: ہوا، نضا اور موسم کو معلوم کرنے

کا آلہ۔

المضغط: پست زمین۔ ج مضاغط.

ضغَل ضغِيلًا: پچھتاگانے ہوئے آواز

نکالنا۔

الضغيل: پچھتاگانے والے کے منہ کی

آواز۔

ضَغَمَ: (ف) ضَغْمًا. الشئُ وَبِه:

بھنبھوڑنا۔ کہا جاتا ہے "ضَغَمَهُ ضَغْمَةً

الأسيد" اس نے اسے شیر کی طرح بھنبھوڑ

لیا۔

الضغامة: دانٹوں سے کاٹ کر پھینکی ہوئی

چیز۔

الضغيم: شیر۔ کاٹنے والا۔ ج ضغيام.

الضغيمي: شیر۔

ضَغِنَ: (س) ضَغْنَا. عَلَيْهِ: کینہ رکھنا.....

إِلَيْهِ: مائل ہونا۔

إِضْطَغَنَهُ: بغل کے نیچے لینا۔

إِضْطَغَنَ وَتَضَاغَنَ. الْقَوْمُ: ایک دوسرے

سے کینہ رکھنا۔ کہا جاتا ہے "إِضْطَغَنَ فَلَانٌ

عَلَى فَلَانٍ ضَغِينَةً" یعنی کینہ کو پوشیدہ رکھا۔

الضغِنُ: کینہ۔ شوق۔ میلان۔ جی۔ بغل۔

جانب۔ پہاڑ کا پہلو۔ ج أضغان.

الضغائن والضغين: کینہ ور۔ قوس ضاغين

وضغين: آڑیل گھوڑا جو بغیر مارے ہوئے نہ

چلے۔ عُوذُ ضغين: نیزگی لکڑی۔

الضغينة: کینہ۔ ج ضغائين.

ضَغَا يَضْغُوا ضَغْوًا. الْمُقَامِرُ: خیانت کرنا

..... إِلَيْهِ: عاجزی کرنا..... ضَغْوًا وَضَغَاءً

السِنُوْرُ: بلی کا میاؤں میاؤں کرنا۔

إِضْغَاهُ إِضْغَاءً: میاؤں میاؤں کرنے پر

تَضَاغَى: بھوک یا مار سے بلبلانا۔

الضغاء: مص۔ ذلیل آدمی کی آواز۔

ضَفَّ: (ن) ضَفًّا وَضَفْفًا. الْقَوْمُ عَلَى

السَّمَاءِ أَوْ الطَّعَامِ: بھیڑ کرنا..... ضَفًّا

الشئُ: جمع کرنا۔

تَضَاغَ. الْقَوْمُ: بھیڑ کرنا۔ کم مال والا ہونا۔

ضَفَّ التحال: بد حال۔

الصفَّةُ: جماعت۔

الصفَّةُ والصفَّةُ: دریا کا کنارہ۔

..... مِنَ السَّحْرِ: سمندر کا ساحل۔ ج

ضِفَاف.

الضِفَافُ: مال کی قلت اور اہل و عیال کی

کثرت۔ حاجت۔ کمزوری۔ جلد بازی۔

الضفافة: بے عقل۔

عَيْنُ ضَفُوفٍ: بہت پانی والا چشمہ۔

مَاءٌ مَضْفُوفٌ: جس پانی پر بھیڑ زیادہ ہو۔

ضَفْدَةٌ: (ض) ضَفْدًا: ٹھانچہ مارنا۔

ضَفْدَعُ الْمَاءِ: پانی کا مینڈکوں والا ہونا

..... الرَّجُلُ: سکرنا۔ گوز کرنا۔

الضفدع: مینڈک۔ ج ضفادع و ضفادى

: اور یہ کم استعمال ہے۔ واحد ضفدعة.

ضَفْرٌ: (ض) ضَفْرًا وَضَفْرًا. الحَبْلُ: رسی

بٹنا..... الشغْرُ: ہال گوندھنا۔ ضفر البناء:

عمارت کو پتھروں سے بغیر چوٹے گارے کے

بنانا۔ الرَّجُلُ: دوڑنے میں کودنا..... الدَّابَّةُ:

جانور کے منہ میں لگام دینا۔

ضَافِرَةٌ: علی الامر: مدد کرنا۔

تَضَاْفَرُوا. عَلَى الامرِ: ایک دوسرے کی

مدد کرنا۔

إِنْضَفَرَ: گندھا ہوا ہونا۔ بنا ہوا ہونا۔ کہا جاتا

ہے "انضفر الحبلان" یعنی دونوں رسیاں

گندھ گئیں۔

الضفر: مص۔ کجاوہ کا تنگ۔ گندھے ہوئے

بالوں کی ایک پٹی۔ ریت کا بڑا تودہ جو ایک

جگہ جمع ہو گیا ہو۔ ج ضفوز و اضفاز.

الضفاز: کجاوہ کا تنگ۔ ج ضفر.

الضَّفِيرَةُ: زیت کا بڑا تودہ جو ایک جگہ جمع ہو گیا ہو۔ کثانَةُ ضَفِيرَةٍ: بھرا ہوا ترش۔

الضَّفِيرُ: گندھے ہوئے بالوں کی رسی۔

سمندر کا کنارہ۔ کجاوہ کا تنگ۔

الضَّفِيرَةُ: گندھے ہوئے بالوں کی ایک پٹی۔ چوٹی۔ ج ضَفَانِيُو کہا جاتا ہے "كثانَةُ ضَفِيرَةٍ" یعنی بھرا ہوا ترش۔

ضَفْرٌ: (ن) ضَفْرًا: کودنا۔ فَلَاحًا: دفع کرنا۔ ہاتھ یا پیر سے مارنا۔ الضَّفْرَسُ: گھوڑے کے منہ میں لگام دینا۔ الضَّيْعِرَةُ: اُونٹ کے منہ میں زبردستی لقمہ دینا۔

إِضْفَرَةٌ: زبردستی لگانا۔

الضَّفَارُ: چغل خور۔

الضَّفِيرَةُ: بڑا لقمہ۔ ج ضَفَانِيُو۔

ضَفْفَةُ: الضَّفْوَمُ: جماعت۔ قوم۔

ضَفْفَةٌ: (ن) ضَفْفًا: بِالْحَجَلِ: رسی سے باندھنا۔ الضَّرْجَلُ: حاجت پوری کرنا۔

بَسْلَجِه: پانچنا نہ کرنا۔

ضَفْطٌ: (ک) ضَفْطًا: ڈھیلے اور بڑے پیٹ کا ہونا۔ جاہل اور کمزور رائے کا ہونا۔

تَضَفِطُ: اللَحْمُ: گوشت کا گٹھا ہوا ہونا۔

الضَفْفَةُ: جہالت۔ کمزوری رائے۔

الضَفَائِطُ: فَا: مسافر جس کا سفر دور کا نہ ہو۔

الضَفَائِطَةُ: مَوْتٌ ضَفَائِطٌ: بار برداری کا اُونٹ۔ کمینہ آدی۔ شتر بان۔

الضَفْطُ وَالضَفِطُ وَالضَفِيطُ: مونا ڈھیلا۔ بڑے پیٹ والا۔ بے وقوف۔ کامل جو قوم کا ساتھ جنگ وغیرہ میں نہ دے۔ شتر بان۔

الضَفْطُ: کمینہ آدی۔

الضَفْطُ: مونا ڈھیلا۔ بڑے پیٹ والا۔

ضَفْنٌ: (ض) ضَفْنًا: اَلْيَةِ: کسی کے پاس جا کر بیٹھنا۔ بِحَاجَتِهِ: حاجت پوری کر دینا۔ بِرَجِيلِهِ: لات مارنا۔ مَعَ الضَّعِيفِ: ساتھ آنا۔ بِنِ الْاَرْضِ: زمین پر نیک دینا۔ فَلَاحًا: چوڑ پرات مارنا۔ عَلَيْهِ: ظلم کرنا۔

تَضَافَنَ: الْقَوْمُ عَلَيْهِ: مل کر مدد کرنا۔

الضَفِينُ وَالضَفِيْنُ: بے وقوف۔ چھوٹے قد کا موٹا۔

ضَفَا يَضْفُو ضَفْوًا: الرَّاسُ: سر پر بال بہت زیادہ ہونا۔ الضَّحْوَضُ: حوض کا کناروں سے بہتا۔ الضَّوْبُ: کپڑے کا پورا ہونا۔ صفت ضَافٍ۔

الضَفَا: جانب۔ مثنى ضَفْوَان۔

ضَفْوَةٌ: العَيْشُ: خوش عیشی۔

ضَقٌّ: (ض) ضَقًّا: آواز کرنا۔

ضَكَّةٌ: (ن) ضَكًّا: بھینچنا۔ الاَصْرُ فَلَاحًا: تنگ ہونا۔ بِالْحَجَّةِ: مغلوب کرنا۔

ضَكْرَةٌ: (ن) ضَكْرًا: زور سے چھبونا۔

الضَّكَلُ: تھوڑا پانی۔

الضَّيْجَلُ: بڑے ذیل ڈول کا۔ ننگا فقیر۔ ج ضَيَاكِلٌ وَضَيَاكِلَةٌ۔

الاضْضَكَلُ: ننگا۔

ضَلٌّ: (س ض) ضَلَالًا وَضَلَالَةً: گمراہ ہونا۔ دین حق یا راہ حق سے ہٹ جانا۔ صفت ضَالٌ: ج ضَلَالٌ وَضَالُوْنَ: الضَّطْرِيْقُ او عَنْهُ: ہدایت نہ پانا۔ الشَّيْءُ عَنْهُ: ضائع ہونا۔ بیکار جانا۔ ضَلَّ سَعْيُهُ: کامیاب نہ ہونا۔ الضَّيْءُ: تلف ہونا۔ الضَّرْجَلُ: مرنا اور گل سڑ کر مٹی اور ہڈی ہو جانا۔ الضَّرْجَلُ: بھول جانا۔

ضَلَّلَهُ تَضَلُّلًا وَتَضَلُّلًا: گمراہ کر دینا۔ گمراہی کی طرف نسبت کرنا۔

اضْلٌ: الشَّيْءُ: ضائع کرنا۔ ہلاک کرنا۔ دَفْنٌ: ضائع کرنا۔ غائب کرنا۔ اللّٰهُ كَأَنَّ كُو: گمراہ کر دینا۔ فَلَانَ فَرَسُهُ: گھوڑے کا بھاگ جانا اور یہ معلوم نہ ہو کہ کہاں گیا۔

الشَّيْءُ او الضَّرْجَلُ: گمراہ پانا اور اسی سے ہے "أَتَى قَوْمَهُ فَاضْلَهُمْ" یعنی اپنی قوم کے پاس آیا تو ان کو گمراہ پایا۔

تَضَالٌ: گمراہی کا دعویٰ کرنا۔

اِسْتَضَلُّ: گمراہ ہونے کو کہنا۔

الضَّلُّ وَالضَّلُّ وَالضَّلَالُ وَالضَّلَالَةُ: گمراہی۔ باطل۔ ہلاکت۔ کہا جاتا ہے "هُوَ ضَلُّ بَنُ ضِلٍّ او ضِلُّ بَنُ ضِلٍّ او ضِلُّ اَضْلَالٍ او ضِلُّ اَضْلَالٍ" یعنی وہ گمراہی میں مٹھک ہے یا اس کے باپ کا پتہ نہیں یا اس کے اندر خیر نہیں۔

الضَّلُّ: گمراہی۔ پانی جو پتھروں کے نیچے بہے یا درختوں کے نیچے جس کو کبھی دھوپ نہ لگے۔

الضَّلَّةُ: اسم مرء۔ حیرت۔ خیر یا شر کے طلب کرنے میں غائب ہونا۔

الضَّلَّةُ: گمراہی۔ کہا جاتا ہے "ذَهَبَ دَمُهُ ضَلَّةً" یعنی اس کا خون بلا قصاص کے ضائع ہو گیا۔ "ذَهَبَ ضَلَّةً" یعنی معلوم نہیں کہاں گیا۔ "هُوَ بَنِعَ ضَلَّةً" یعنی وہ مصیبت میں ہے۔ "هُوَ يَلُوْمُنِي ضَلَّةً" یعنی ملامت کرنے میں اسے ہدایت کی توفیق نہیں ہوئی۔

الضَّلَّةُ: کامل رہنمائی۔ کہا جاتا ہے "دَلِيلٌ بِهِ ضَلَّةً" یعنی ایسا رہنما ہے جس کے اندر کامل رہنمائی ہے۔

الضَّلَّةُ: مَوْتٌ ضَالٌ: گم شدہ چیز جس کے پیچھے تم پھر رہے ہو۔ ج ضَوَالٌ۔

الضَّلِيلُ: بہت زیادہ گمراہ۔

الاضْلُوْلَةُ: گمراہی۔ ج اضْلَالِيْلٌ۔

المَضَلُّ: جس میں لوگ گمراہ ہو جائیں۔

المَضِلُّ: فَا: سراب۔

المَضَلَّةُ وَالْمَضَلَّةُ: گمراہی۔ اَرْضٌ مَضَلَّةٌ وَمَضَلَّةٌ: زمین جس میں راستہ بھول جائیں اور جمع کے لئے کہا جاتا ہے "اَرْضٌ مَضَلَّةٌ"۔

المَضَلُّ: بہت زیادہ گمراہ۔ گمراہی کے پیچھے بہت زیادہ پڑنے والا جس کو خیر کی توفیق نہ دی گئی ہو۔

ضَلْعٌ: (ک) ضَلْعًا: قَوِيٌّ مَضْبُوْبٌ: پسلیوں والا ہونا۔ صفت ضَلِيْعٌ۔

ضَلْعٌ: (ف) ضَلْعًا: الشَّيْءُ: ٹیڑھا ہو

جانا۔ صفت ضَالِعٌ الرَّجُلُ: پہلی پرمارتا
..... عَلَيْهِ ظلم کرنا۔

ضَلِعَ (س) ضَلَعًا وَضَلَعًا: پیدائش ٹیزھا
ہونا۔ صفت ضَلِعٌ اور اسی سے ہے "الْأَقِيمِن
ضَلَعَكَ أَوْ ضَلَعَكَ" یعنی میں تیری سچی کو
درست کر دوں گا۔ ضَلِعَ مَعَ فَلَانٍ: جھکتا
..... الرَّجُلُ: شکم پر یا سیراب ہونا۔

ضَلَعَهُ: جھکتا۔ ٹیزھا کرنا۔ بوجھل کرنا۔
ضَلَعُ الضُّوبِ: کپڑے پر پیلوں کے مانند
نقش و نگار بنانا۔

أَضْلَعَهُ: جھکتا۔ بوجھل کرنا۔ کہا جاتا ہے
"فَلَانٌ أَضْلَعَهُ الضُّطُوبُ" یعنی فلاں کو
حوادث نے بوجھل کر دیا۔

تَضَلَعٌ: شکم پر یا سیراب ہونا اور اسی سے
ہے "تَضَلَعُ مِنَ الْعُلُومِ" یعنی اس نے علوم
سے حصہ کمال پایا۔

أَضْطَلَعُ: قوی ہونا..... بِحَمَلِهِ: بوجھلے کر
کھڑا ہونا اور اس کی طاقت رکھنا۔

الضَّلْعُ: میلان و ٹیزھاپن۔ کہا جاتا ہے
"ضَلَعَكَ مَعَ فَلَانٍ" تمہارا میلان فلاں کی
جانب ہے۔

الضَّلْعُ وَالضَّلْعُ: پہلی (مؤنث) أَضْلَعُ
وَضُلُوعٌ وَأَضْلَاعٌ: کہا جاتا ہے "هَمْ عَلِيٌّ
ضَلْعٌ جَانِبَةٌ" یعنی وہ سب میرے اوپر ظلم

کرنے میں متفق ہیں۔ الضَّلْعُ وَالضَّلْعُ مِنْ
الْبَطْنِ: خربوزے کی قاش پھانک۔ ضَلْعٌ
السَّلْقِ وَنَحْوَهُ: چندر کے پتوں کی موٹی

رگ۔ الضَّلْعُ: چھوٹا پھاڑ۔ پھندا۔ جال۔
ابرو۔

الضَّلْعَةُ: جانب۔
الضَّلْعَةُ: ایک سبز رنگ کی چھوٹی مچھلی۔
الأضْلَعُ: مضبوط موٹا مرد۔ ج ضَلْعٌ.

الضَّلُوعُ: زمین کا ڈھلوان۔
الضَّلْيَعُ: مضبوط پیلوں والا۔ قوی۔ ج
ضَلْعٌ: مؤنث ضَلْيَعَةٌ رَجُلٌ ضَلْيَعٌ الْقَمِ:

بڑے منہ والا۔ قنوس ضَلْيَعٌ وَضَلْيَعَةٌ
وَمَضْلُوعَةٌ: کمان جس کی لکڑی میں جھکاؤ

ہو۔
الْمُضْلَعُ مِنَ الْأَحْمَالِ: بوجھل۔ عاجز کر
دینے والا۔ کہا جاتا ہے "مُضْلِعٌ بِهَذَا
الْأَمْرِ" اسے اس کام کی طاقت ہے۔

الْمُضْلَعُ: پہلوؤں والا..... مِنَ الثِّيَابِ:
دھاری دار کپڑا۔

الْمُضْلَعُ أَوْ ذُو الْأَضْلَاعِ: (ہ) خط منکر اور
اس کے قطعات کو اضلاع اور اطراف
اضلاع کو روٹس بولتے ہیں۔

الْمُضْلَعُ الْمُنْتَظِمُ: وہ خط جس کے اضلاع
برابر ہوں اسی کو محمد اور سچی بولتے ہیں۔
الْمُضْلَعُ الرَّبَاعِيُّ: چار اضلاع والا۔

الْمُضْلَعُ الْخَمَّاسِيُّ: پانچ اضلاع والا۔
الْمُضْلَعُ السَّدَّاسِيُّ: چھ اضلاع والا۔

ضَمٌّ: (ن) ضَمًّا. الشَّيْءُ: جمع کرنا.....
الشَّيْءُ إِلَيْهِ: قبضہ کرنا اور اپنی طرف کھینچنا.....

عَلَى الشَّيْءِ: قبضہ کرنا..... فَلَانًا إِلَيْهِ: ساتھ
رکھنا۔ ضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ: معانقہ کرنا.....
الْحَرْفُ: حرف کو ضمہ کی حرکت دینا۔ کہا جاتا

ہے "ضَمَّ جَنَاحَهُ عَنِ النَّاسِ" یعنی اس نے
لوگوں سے نرمی برتی۔

ضَمَّاهُ إِلَيْهِ: ملانا۔
أَضَمَّهُ. الشَّيْءُ إِلَى فَلَانٍ: فلاں کی طرف
چیز بھیجنا۔

انضمم: ملنا..... عَلِيٌّ كَذَا: مشتمل ہونا۔
تَضَمَّمُ. الشَّيْءُ: پوری طرح سے شامل
ہونا۔

أَضْطَمَّهُ: اپنی طرف ملانا۔ اَضْطَمَّ عَلَيْهِ:
مشتمل ہونا۔

الضَّمُّ وَالضَّمَّةُ: پیش کی حرکت۔ الضَّمَّةُ:
گھوڑ دوڑ کے گھوڑوں کی جماعت۔
الضَّمَامُ: ملانے کا ذریعہ۔

الضَّمُومُ: دو لمبے ٹیلوں کے درمیان کی
وادی۔
الضَّمِيمُ: ساتھی۔ مؤنث ضَمِيمَةٌ.

الإضْمَامَةُ: جماعت۔ ج أضياميم..... مِنْ
الْكُتُبِ: کتابوں کا بنڈل۔

الْمُنْضَمُ. عَلِيٌّ كَذَا: مشتمل ملا ہوا۔ کہا جاتا
ہے "أَضْبَعُ مُنْضَمًا" یعنی لاغر ہو گیا گویا کہ
بعض بعض کے ساتھ ملا ہوا ہے۔

ضَمَجَ (ن) ضَمَجًا وَضَمَجَ: جسدہ:
خوشبو لگانا۔

ضَمَجَ وَأَضْمَجَ. بِالْأَرْضِ: زمین سے
چٹ جانا۔

الضَّمْنَجَةُ: ایک بدبودار کبوتر جو کاتا ہے۔
کھٹل۔

الضَّمَجُ: آفت جو انسان کو لاحق ہو۔
إِضْمَحَلٌ: نیست و نابود ہونا..... السَّخَابُ
: بادل کا کھل جانا۔

ضَمَخَ (ن) ضَمَخًا وَضَمَخَ: جسدہ
بِالطَّبِيبِ: بدن میں خوشبو لگانا۔

تَضَمَخَ وَانْضَمَخَ وَاضْطَمَخَ. بِالطَّبِيبِ:
خوشبو سے لت پت ہونا۔

الضَّمْنَجَةُ: موٹی عورت یا اونٹنی۔
ضَمَدَ (ن ض) ضَمَدًا وَضَمَدَ: الجُرْحُ:
زخم پر پٹی باندھنا۔ کہا جاتا ہے "أَضْمَدَ

عَلَيْكَ قِيَابَكَ" یعنی اپنے کپڑے کو اپنے
اوپر باندھو "ضَمَدَهُ بِالْعَصَا" اس نے اس
کے سر پر لاشی ماری اور ایسا ہی "ضَمَدَ رَأْسَهُ
بِالسِّيفِ".

ضَمَدَ (س) ضَمَدًا: خشک ہونا۔ سخت
غضبناک ہونا..... عَلَيْهِ: کینہ کرنا۔

أَضْمَدَ. الْقَوْمُ: جمع کرنا۔
تَضَمَّدَ. الْجُرْحُ: پٹی باندھ جانا۔

الضَّمْدُ: مہس۔ تر۔ خشک۔ عمدہ بکریاں۔
خراب بکریاں۔ کینہ دہری۔ الضَّمْدُ:
دوست۔ ساتھی۔

الضَّمْدُ: ظلم۔ پرانا حق۔
الضَّمَادُ: فال۔ لازم۔

الضَّمَادُ وَالضَّمَادَةُ: پٹی جس سے عضو
مجروح کو باندھا جائے..... کہا جاتا ہے "أَنَا
عَلَى ضَمَادَةٍ مِنَ الْأَمْرِ" یعنی میں کام کے

نزدیک پہنچ گیا ہوں۔
ضَمَرُ (ن) وَضَمَرُ (ك) ضَمُورًا:

ذُبلًا ہوتا۔ لاغر ہوتا۔ چھریا ہوتا۔ صفت
ضامِرٌ: مؤنث ضامِرٌ وضامِرَةٌ ج ضَمْرٌ
وضَوَامِرٌ۔
أَضْمَرَ الْأَمْرَ: پوشیدہ کرنا..... فَعَى نَفْسِهِ
شَيْئًا: اپنے دل میں کسی چیز کا عزم کرنا.....
الْخَيْرِ: تنگ پینٹنا۔ أَضْمَرَتِ الْأَرْضُ
فَلَاتًا: زمین نے اس کو موت یا سفر کی وجہ سے
غائب کر دیا۔ الشَّاعِرُ: شاعر کا اہمار برتنا
اور اہمار اصطلاح فن عروض میں یہ ہے کہ
دوسرے حرف کو ساکن کر دیں۔ جیسے
مُتَفَاعِلُنْ: کے دوسرے حرف کو ساکن کر دیں
تَوُتَفَاعِلُنْ ہو کر مُتَفَاعِلُنْ کے وزن پر ہو
جاتا ہے۔
أَضْمَرَ وَضَمَّرَ: القَرَسُ: ذُبلًا کرنا۔ چھریا
بنانا۔
تَضَمَّرَ وَجْهَهُ: لاغری کی وجہ سے کھال سکر
جانا۔
أَضْمَرَ الْفَضْلُ: شئی کا خشک ہونا۔
أَضْمَرَ: مل جانا..... القَرَسُ: گھوڑے کا
ذُبلًا ہونا۔ چھریا ہونا۔
الْأَضْمَارُ: علم عروض میں دوسرے حرف کو
ساکن کرنا۔ جیسے تامتفاعن اس کو مستفعلن کی
طرف منتقل کر دیا گیا۔
الضَّمْرُ: چھریا۔ ذُبلًا۔ پتلے پیٹ والے نازک
پدن۔ مؤنث ضَمْرَةٌ: تنگ۔ راز
(..... الْمُضْمَرُ): پوشیدہ۔
الضَّمْرُ وَالضَّمْرُ: ذُبلًا پن۔
الضَّمِيرُ: راز۔ پوشیدہ خیال۔ پڑ مردہ
انگور۔ ضمیر نحو یوں کے نزدیک وہ کلمہ ہے جو
مشکلم مخاطب اور غائب پر دلالت کرے جیسے
أَنَا أَنْتَ هُوَ ج ضَمَائِرٌ۔
الضَّمَارُ: پوشیدہ۔ ٹالا ہوا وعدہ۔ ہر وہ چیز
جس پر اعتماد نہ ہو۔ مال جس کی واپسی کی
امید نہ ہو..... مِنَ الَّذِينَ: جس کی مدت معین
نہ ہو۔
الْأَضْمَارُ: مص۔ زحافات شعر یہی کی ایک قسم
تشریح اضممر فعل کے تحت میں دیکھو۔

الضُّومِرَانِ وَالضُّمِرَانِ: ایک قسم کی
خوشبودار گھاس۔
الضُّمَارُ: گھوڑ دوڑ کے میدان کی انتہا۔ وہ
میدان جہاں گھوڑے چھریے کئے
جائیں۔ گھوڑوں کے چھریے کرنے کی
مدت۔ میدان گھوڑ دوڑ۔
ضَمْرٌ: (ن ض) ضَمْرًا: چپ رہنا.....
الضَّمَّةُ: بڑا تہہ بنانا اور نگل جانا..... عَلِيٌّ
مَالِيَهُ: بخل کرنا۔ صفت ضَامِرٌ وَضَمُورٌ ج
ضَمُورٌ۔
ضَمَمَهُ (ض) ضَمَمًا: آہستہ آہستہ
چپانا۔
ضَمَمَ ضَمَمَةً: دل کو قوی کرنا۔ بہادر
بنانا..... الْأَسَدُ: شیر کا گونجنا..... فَلَانٌ عَلِيٌّ
الْمَالِ: کل لے لیا۔
الضَّمَمُ وَالضَّمَامِصُ: دلیر۔ گرائڈل۔
شیر غضبناک۔
ضَمِنَ (س) ضَمَنًا وَضَمَانًا الشَّيْءُ وَبِهِ:
کفیل ہونا۔ ضامن ہونا..... جمع کرنا۔
ضَمِنَ (س) ضَمِنًا وَضَمَانَةً: الرَّجُلُ:
ایسے مرض میں مبتلا ہونا جو ہمیشہ رہے اور وقتاً
فوقتاً سخت ہوتا رہے۔ صفت ضَمِينٌ۔
ضَمِنَ الشَّيْءُ الْوِعَاةَ: برتن میں رکھنا.....
الشَّيْءُ: ذمہ دار بنادینا..... الشَّاعِرُ: شاعر کا
تضمین کرنا۔ یعنی دوسرے کے شعر کو اپنے
کلام میں شامل کر لینا۔
تَضَمَّنَ الشَّيْءُ: مشتمل ہونا..... الشَّيْءُ عَنِي
: اس نے میری طرف سے اپنے ذمہ لے
لیا۔
الضَّمْنُ وَالضَّمْنَةُ وَالضَّمَانُ وَالضَّمَانَةُ:
ہمیشہ کار رہنے والا مرض۔ لجاج پن۔
الضَّمْنُ: المدرون شئی۔ ضَمْنُ الْكِتَابِ:
کتاب کا بچ۔
الضَّمِينُ: عشق۔ پرانے مرض والا۔ کہا جاتا
ہے "هُوَ ضَمِينٌ عَلَيَّ أَهْلِيهِ" یعنی وہ اپنے
لوگوں پر بوجہ ہے۔
الضَّمِينُ: فا۔ ضامن۔ کفیل۔ ذمہ دار۔

الضَّمِينُ: کفیل۔ مرض لازم میں مبتلا۔ ج
ضَمْنِي۔
الضَّمَانُ: مص۔ کفالت۔ تاوان۔ ڈنڈ۔
الضَّمُونُ: مفتح۔ جس کی کفالت کی
جائے۔
مِنَ الْجُمْلَةِ: مفہوم جو جملہ سے کچھ میں آئے
اور جملہ اس کے لئے بیان نہ کیا گیا ہو۔ ج
مَضَامِينٌ۔
الضَّمَمُ: مفتح۔ تضمین کیا ہوا..... مِّنَ
الْأَصْوَاتِ: غیر مکمل آواز جب تک دوسرے
سے ملایا نہ جائے کچھ میں نہ آئے۔
ضَمَّنَ (س ض) ضَمَّنًا وَضَمْنًا وَضَمْنَةً ضَمْنَةً
وَمَضْنَةً وَأَضْمَنَ: بِالشَّيْءِ: بخل کرنا۔ ضَمَّنَ
بِالْمَكَّانِ: مکان سے جدا نہ ہونا۔
الضَّمْنُ وَالضَّمْنَةُ: جس پر بخل کیا جائے۔
خاص۔ کہا جاتا ہے "هُوَ ضَمْنِي وَضَمْنِي" وہ
میرے ساتھ مختص ہے۔
الضَّمْنُ: بہادر۔
الضَّمِينُ: بخل۔ کہا جاتا ہے "أَنَا ضَمْنٌ
بِالضَّمِينِ" یعنی بخل کے ساتھ بخل کیا جاتا
ہے۔
الضَّمَانُ: وہ چیزیں جن کی نفاست کی وجہ
سے بخل کیا جائے اور اسی سے ہے "ضَمَانُ
اللَّهِ" اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے خاص لوگ۔
الضَّمَانَةُ: مص۔ بخل کرنا۔ کہا جاتا ہے
"هَجَمْتُ عَلَيَّ الْقَوْمَ وَهُمْ بِضَمَانَتِهِمْ"
میں قوم پر اچانک پہنچ گیا اور وہ لوگ متفرق
نہیں ہوئے تھے۔
الضَّمْنَةُ وَالضَّمْنَةُ: جس پر بخل کیا جائے۔
ج مَضَانٌ۔
ضَمَّنَا (ف) ضَمَّنًا وَضَمْنًا: ا۔ چھیننا..... فَعَى
الْأَرْضِ: جانا..... الْمَالُ: کثیر ہونا
(ضَمَانٌ) (ف) ضَمَّنًا وَضَمْنًا وَضَمْنَةً
(س) ضَمَّنًا وَأَضْمَنَ) الْمَرْأَةُ: بہت اولاد
والی ہونا۔ صفت ضَمَانِيٌّ وَضَمَانِيَّةٌ۔ ج
ضَمَانِيٌّ۔
أَضْمَنَّا لَهُ وَمِنَهُ: شرمانا اور منقبض ہونا۔

ضَهْنَةٌ: (ن) ضَهْنًا: سخت روندنا۔	النون میں مذکر مؤنث واحد جمع سب برابر ہیں اور ضَنْ: بکسر النون جب بولا جائے گا تو اس کے لئے شنیہ جمع اور مؤنث کے صیغے استعمال کئے جائیں گے۔ ضَنْبِي: کی جمع اَضْنَاءُ۔	الضَّنُّ: اصل۔ معدن۔ کثرت نسل۔ رج. ضَنْوَةٌ۔
ضَهْدَةٌ: (ف) ضَهْدًا۔	ضَانِي مُضَانَاةُ الشَّيْءِ او الامر: مشقت برداشت کرنا۔	الضَّنُّ وَالضَّنُّ: اولاد (اس کے لئے واحدیں)
أَضْهَدَهُ وَأَضْهَدِيهِ وَأَضْهَدَهُ: غلبہ کرنا اور ظلم کرنا۔ تکلیف دینا اور مجبور کرنا۔	أَضْنَى إِضْنَاءً. الْمَرَضُ فَلَاتًا: بیماری کا ست کر دینا..... الرَّجُلُ: بیماری کی لاغری کی وجہ سے صاحب فراش ہونا۔	الضَّنَاءَةُ وَالضَّنَاءَةُ: ضرورت۔
الضَّهْدَةُ: غلبہ اور قہر۔ کہا جاتا ہے "ضَهْدَةٌ لِكُلِّ أَحَدٍ" یعنی ہر وہ شخص جو چاہتا ہے اسے مجبور کرتا ہے۔	تَضَنَّى: تکلف بیمار ہونا۔ بنا۔	ضَنْبٌ: (ن) ضَنْبًا بِهِ الْأَرْضُ: زمین پر پلک دینا۔ ضَنْبٌ بِالشَّيْءِ: قبضہ کرنا۔
الضَّهْدَةُ: غلبہ اور قہر۔ کہا جاتا ہے "ضَهْدَةٌ لِكُلِّ أَحَدٍ" یعنی ہر وہ شخص جو چاہتا ہے اسے مجبور کرتا ہے۔	إِنْضَطَّ: چربی۔ نشاط۔ ڈینگ۔	ضَيْطٌ (س) ضَيْطًا. الشَّحْمُ: موم اور ٹھوس ہوتا۔
الضَّهْدَةُ: سخت مضبوط۔	تَضَنَّى: تکلف بیمار ہونا۔ بنا۔	الضَّيْطُ: چربی۔ نشاط۔ ڈینگ۔
الضَّهْرُ وَالضَّاهِرُ: پہاڑ کی چوٹی۔ وادی۔	إِنْضَطَّ: چربی۔ نشاط۔ ڈینگ۔	الضَّيْطُ: کٹھن وغیرہ پر بہت زیادہ بھیر۔
الضَّهْرُ: کچھو۔	الضَّنِي: بیماری۔ لاغری۔ بد حالی۔	ضَنْكٌ (ك) ضَنْكًا: ست رائے۔
الضَّهْرُ وَالضَّاهِرُ: پہاڑ کی چوٹی۔ وادی۔	الضَّنِي وَالضَّنُو وَالضَّنِي: اولاد۔ کہا جاتا ہے "لَهُ ضَنْوٌ كَثِيرٌ" اس کی بہت اولاد ہے۔	ضَيْفٌ الضَّيْفُ: کمزور بدن والا۔ صفت
الضَّهْرُ: کچھو۔	الضَّنِي: چننی بیماریاں۔	ضَيْفٌ (س) ضَيْفًا: ضَنْكًا ضَنْكًا
ضَهْرَةٌ وَضَهْسَةٌ (ف) ضَهْرًا وَضَهْسًا:	ضَنْتٌ تَضَنَّى وَضَيْتٌ تَضَنَّى ضَنِي	وَضَنْكًا وَضَنْوُكَةً: تنگ ہونا۔
سخت روندنا..... الضَّابَّةُ: جانور کا اگلے دانتوں سے کاٹنا۔	وَضَنْاءُ الْمَرْأَةِ: کثیر اولاد ہونا۔ ضَنِي نَضِيبٌ فَلَانٌ: حصہ کا بد حوا۔	ضَيْفٌ الضَّيْفُ: کمزور بدن والا۔ صفت
ضَهْلٌ (ف) ضَهْلًا وَضَهْلًا. اللَّيْنُ:	ضَنْبٌ (ف) ضَهْبًا بِالنَّارِ: آگ سے متغیر کرنا۔	ضَيْفٌ (س) ضَيْفًا: ضَنْكًا ضَنْكًا
تھوڑا تھوڑا جمع ہونا..... النَّاقَةُ وَنَحْوُهَا:	ضَهْبٌ (ف) ضَهْبًا: کھڑکیں پکنے لگنا.....	وَضَنْكًا وَضَنْوُكَةً: تنگ ہونا۔
تھوڑی دودھ والی ہونا۔ صفت ضَهْلٌ ج	ضَهْبٌ (ف) ضَهْبًا: کھڑکیں پکنے لگنا.....	ضَيْفٌ الضَّيْفُ: کمزور بدن والا۔ صفت
ضَهْلٌ ضَهْلًا. حَقَّةٌ: حق کم کرنا.....	ضَهْبٌ (ف) ضَهْبًا: کھڑکیں پکنے لگنا.....	ضَيْفٌ الضَّيْفُ: کمزور بدن والا۔ صفت
وَتَضَهَّلَ إِلَى فَلَانٍ: کسی کی جانب بغیر ارادہ جنگ کے لوٹنا۔	ضَهْبٌ (ف) ضَهْبًا: کھڑکیں پکنے لگنا.....	ضَيْفٌ الضَّيْفُ: کمزور بدن والا۔ صفت
أَضْهَلَ. النَّخْلُ: کھجوریں پکنے لگنا.....	ضَهْبٌ (ف) ضَهْبًا: کھڑکیں پکنے لگنا.....	ضَيْفٌ الضَّيْفُ: کمزور بدن والا۔ صفت
فَلَانٌ عَالًا: نال کو فلان کی طرف کر دینا۔	ضَهْبٌ (ف) ضَهْبًا: کھڑکیں پکنے لگنا.....	ضَيْفٌ الضَّيْفُ: کمزور بدن والا۔ صفت
إِسْتَضَهَلَ. النَّخِيرُ: حسب امکان خبر طلب کرنا۔	ضَهْبٌ (ف) ضَهْبًا: کھڑکیں پکنے لگنا.....	ضَيْفٌ الضَّيْفُ: کمزور بدن والا۔ صفت
الضَّهْلُ: مجتمع دودھ۔ تھوڑا پانی۔	ضَهْبٌ (ف) ضَهْبًا: کھڑکیں پکنے لگنا.....	ضَيْفٌ الضَّيْفُ: کمزور بدن والا۔ صفت
الضَّاهِلَةُ مِنَ الْعَيْنِ: تھوڑے پانی کا چشمہ۔ الضَّهْوَاءُ: بے پستان عورت۔	ضَهْبٌ (ف) ضَهْبًا: کھڑکیں پکنے لگنا.....	ضَيْفٌ الضَّيْفُ: کمزور بدن والا۔ صفت
الضَّهْوَةُ: جوڑ۔ ج اَضْهَاءُ.	ضَهْبٌ (ف) ضَهْبًا: کھڑکیں پکنے لگنا.....	ضَيْفٌ الضَّيْفُ: کمزور بدن والا۔ صفت
ضَهَيْتُ تَضَهَيْ ضَهْيًا. الْمَرْأَةُ: عورت کا بغیر پستان اور بغیر دودھ کے ہونا۔ صفت	ضَهْبٌ (ف) ضَهْبًا: کھڑکیں پکنے لگنا.....	ضَيْفٌ الضَّيْفُ: کمزور بدن والا۔ صفت
ضَهْيَاءُ ج ضَهْيِي. ضَهَيْتُ الْأَرْضَ: زمین میں کچھ نہ اُگنا اور بغیر پانی کے چھیل میدان ہونا۔	ضَهْبٌ (ف) ضَهْبًا: کھڑکیں پکنے لگنا.....	ضَيْفٌ الضَّيْفُ: کمزور بدن والا۔ صفت
ضَهْبٌ (س) ضَهْبًا: (وادی) مرض کی وجہ سے کمزور و لاغر ہونا۔ صفت ضَهْبِي وَضَهْبِي: کہا جاتا ہے "تَرَكْتُهُ ضَهْبِي وَضَهْبِيًا" ضَهْبِي: بفتح	ضَهْبٌ (ف) ضَهْبًا: کھڑکیں پکنے لگنا.....	ضَيْفٌ الضَّيْفُ: کمزور بدن والا۔ صفت
ضَهْبٌ (س) ضَهْبًا: (وادی) مرض کی وجہ سے کمزور و لاغر ہونا۔ صفت ضَهْبِي وَضَهْبِي: کہا جاتا ہے "تَرَكْتُهُ ضَهْبِي وَضَهْبِيًا" ضَهْبِي: بفتح	ضَهْبٌ (ف) ضَهْبًا: کھڑکیں پکنے لگنا.....	ضَيْفٌ الضَّيْفُ: کمزور بدن والا۔ صفت
ضَهْبٌ (س) ضَهْبًا: (وادی) مرض کی وجہ سے کمزور و لاغر ہونا۔ صفت ضَهْبِي وَضَهْبِي: کہا جاتا ہے "تَرَكْتُهُ ضَهْبِي وَضَهْبِيًا" ضَهْبِي: بفتح	ضَهْبٌ (ف) ضَهْبًا: کھڑکیں پکنے لگنا.....	ضَيْفٌ الضَّيْفُ: کمزور بدن والا۔ صفت
ضَهْبٌ (س) ضَهْبًا: (وادی) مرض کی وجہ سے کمزور و لاغر ہونا۔ صفت ضَهْبِي وَضَهْبِي: کہا جاتا ہے "تَرَكْتُهُ ضَهْبِي وَضَهْبِيًا" ضَهْبِي: بفتح	ضَهْبٌ (ف) ضَهْبًا: کھڑکیں پکنے لگنا.....	ضَيْفٌ الضَّيْفُ: کمزور بدن والا۔ صفت
ضَهْبٌ (س) ضَهْبًا: (وادی) مرض کی وجہ سے کمزور و لاغر ہونا۔ صفت ضَهْبِي وَضَهْبِي: کہا جاتا ہے "تَرَكْتُهُ ضَهْبِي وَضَهْبِيًا" ضَهْبِي: بفتح	ضَهْبٌ (ف) ضَهْبًا: کھڑکیں پکنے لگنا.....	ضَيْفٌ الضَّيْفُ: کمزور بدن والا۔ صفت

ضاهلی مضاهاة الزجل: مشابہ ہونا۔

الضہی: مشابہ۔ ہم شکل۔ کہا جاتا ہے "ہو ضہیک" وہ تمہارا ہم شکل ہے۔

ضاء یضوء ضوءاً و ضواءً او ضیاءاً القمرو وغیرہ: روشن ہونا۔ چمکنا۔

ضوءاً تضاءت البیت: روشن کرنا۔ عین الامر: پھر جانا۔

اضاءة البیت: روشن ہونا۔ البیت: روشن کرنا۔

تضاءت تاریکی میں کھڑا ہونا تاکہ آگ کی روشنی میں لوگوں کو دیکھ سکے۔ تضاءت: کسی ایسی جگہ مائل ہونا جہاں سے آگ کی روشنی سے دیکھ سکے۔

استضاء بہ: روشن ہونا۔ من فلان: مشورہ کرنا۔

الضوء والضوء: روشنی۔ ج اضاء۔ الضیاء والضواء: روشنی۔

الضوی والضحی: روشن۔ روشن کرنے والا۔

ضاح یضوح ضوحاً عن کذا: اعراض کرنا۔ پھر جانا (.....) وانضاج: کشادہ ہونا۔

تضوج الوادی: وادی کا بہت بڑھنا اور ہونا۔ انضوج فی ضوح الوادی: وادی کے موڑ میں داخل ہونا۔

الضوح: وادی کا موڑ۔ ج اذواج۔ الضوحان: تخت خشک۔ مؤنث ضوحانة۔

ضوح اللین: دودھ میں پانی ملانا۔ ضار یضور ضوراً: تخت بھوکا ہونا۔ ضارة الامر: نقصان پہنچنا۔

تضور: درد کی تکلیف یا بھوک سے بچنا۔

کھانا۔ الذئب والنحوہ: بھوک سے بلجانا۔

الضور: سخت بھوک۔ الضور: کالی بدلی۔

الضورة: ذلیل، حقیر۔ ضار یضور ضوراً: پھل کو چبانا

..... حقه: کم کر دینا۔

ضوضی ضوضاة وضیضاء: شور مچانا۔ الضوضی والضوضا والضحیضاء: شور و غوغا۔

ضوط: الاشیاء جمع کرنا۔ تضوط: الشئ جمع ہونا۔

الاضوط: چیزیں جمع ہونے والا۔ بے وقوف۔

الضویطة: بے وقوف۔ حوض کی تہ کی مٹی کا گیلانخیر۔

ضاعه یضوع ضوعاً: حرکت دینا۔ رنجیدہ کرنا۔ بجز کا دینا۔ گھبرا دینا۔ ضاع المسک: مشک کی خوشبو پھیلنا۔

الذائبة: جانور کو ڈبلا کرنا۔ الضبی: رونے میں بچ و تاب کھانا۔

تضوع المسک: مشک کی خوشبو بھڑکنا۔ الضبی: رونے میں بچ و تاب کھانا۔

(.....) وانضاع الفرج: پرندہ کے بچے کا چوگرہ کے لئے اپنی ماں کی طرف پر پھیلانا۔

الضوع والضوع: نرالو۔ رات کو اڑنے والے پرندوں میں سے ایک پرندہ۔

الضواع: نرالو کی آواز۔ رجل مضوع: خوفزدہ۔

ضاف یضوف ضوفاً: عن الشئ: الگ ہونا۔

ضان یضون ضونةً: زیادہ اولاد ہونا۔ الضونة: مہس۔ چھوٹی بچی۔

الضیون: بلا۔ ج ضیاون۔ الضوة: شور۔ لڑائی کا شور۔

ضوی یضوی ضویاً: خلقتا یا لاغری سے تلی ہڈی کا ہونا۔

ضوی یضوی ضویاً وضویاً: ملنا۔ پناہ لینا۔ الرجل: رات کو آنا۔ ضواء الیہ: مائل کرنا۔

اضوی: ڈبلا ہونا۔ لاغر ہونا۔ الرجل: کمزور کرنا۔ حقه: کم کرنا۔ الامر: کچا کام کرنا۔

اضوت المرأة: کمزور بچہ جتنا۔

اضوی: ڈبلا ہونا۔ لاغر ہونا۔ الرجل: کمزور کرنا۔ حقه: کم کرنا۔ الامر: کچا کام کرنا۔

اضواء الیہ: اپنی طرف مائل کرنا۔

انضوی انضواءً: الیہ: شامل ہونا۔ ملنا۔ الضوی: فاقہ۔ رات کو آنے والا۔

الضوی: کمزور۔ ڈبلا۔ خلقتا یا لاغری سے کمزور جسم والا۔ مؤنث ضویة۔

ضاح یضحی ضیحاً وضیوحاً وضیحاناً عنه والیہ: جھکتا۔ مائل ہونا۔ ضاحت عظامہ: لاغری کی وجہ سے ہڈیوں کا مل جانا۔

ضاحت تضیح ضیحاً: الیہ: جھکتا۔ مائل ہونا۔ ضاحت عظامہ: لاغری کی وجہ سے ہڈیوں کا مل جانا۔

ضاحت تضیح ضیحاً: الیہ: جھکتا۔ مائل ہونا۔ ضاحت عظامہ: لاغری کی وجہ سے ہڈیوں کا مل جانا۔

ضاح یضحی ضیحاً وضیوحاً وضیحاناً عنہ والیہ: جھکتا۔ مائل ہونا۔ ضاحت عظامہ: لاغری کی وجہ سے ہڈیوں کا مل جانا۔

ضاحت تضیح ضیحاً: الیہ: جھکتا۔ مائل ہونا۔ ضاحت عظامہ: لاغری کی وجہ سے ہڈیوں کا مل جانا۔

ضاح یضحی ضیحاً وضیوحاً وضیحاناً عنہ والیہ: جھکتا۔ مائل ہونا۔ ضاحت عظامہ: لاغری کی وجہ سے ہڈیوں کا مل جانا۔

ضاحت تضیح ضیحاً: الیہ: جھکتا۔ مائل ہونا۔ ضاحت عظامہ: لاغری کی وجہ سے ہڈیوں کا مل جانا۔

ضاحت تضیح ضیحاً: الیہ: جھکتا۔ مائل ہونا۔ ضاحت عظامہ: لاغری کی وجہ سے ہڈیوں کا مل جانا۔

ضاحت تضیح ضیحاً: الیہ: جھکتا۔ مائل ہونا۔ ضاحت عظامہ: لاغری کی وجہ سے ہڈیوں کا مل جانا۔

ضاحت تضیح ضیحاً: الیہ: جھکتا۔ مائل ہونا۔ ضاحت عظامہ: لاغری کی وجہ سے ہڈیوں کا مل جانا۔

ضاحت تضیح ضیحاً: الیہ: جھکتا۔ مائل ہونا۔ ضاحت عظامہ: لاغری کی وجہ سے ہڈیوں کا مل جانا۔

ضاحت تضیح ضیحاً: الیہ: جھکتا۔ مائل ہونا۔ ضاحت عظامہ: لاغری کی وجہ سے ہڈیوں کا مل جانا۔

ضاحت تضیح ضیحاً: الیہ: جھکتا۔ مائل ہونا۔ ضاحت عظامہ: لاغری کی وجہ سے ہڈیوں کا مل جانا۔

ضاحت تضیح ضیحاً: الیہ: جھکتا۔ مائل ہونا۔ ضاحت عظامہ: لاغری کی وجہ سے ہڈیوں کا مل جانا۔

ضاحت تضیح ضیحاً: الیہ: جھکتا۔ مائل ہونا۔ ضاحت عظامہ: لاغری کی وجہ سے ہڈیوں کا مل جانا۔

ضاحت تضیح ضیحاً: الیہ: جھکتا۔ مائل ہونا۔ ضاحت عظامہ: لاغری کی وجہ سے ہڈیوں کا مل جانا۔



ط' الطَّاءُ: بنیادی حروف میں سے سولہواں حرف ہے۔	طَبَّ: الرَّجُلُ: جاو کیا جانا۔	طَبَّ: الرَّجُلُ: کپڑے کھال یا بادل کا مستطیل ٹکڑا۔
طَاطَأُ: الرَّاسُ وغیرہ: پست کرنا۔ کہا جاتا ہے "طَاطَأَ رَأْسَهُ عَنْ كَذَا" یعنی فلاں چیز سے اس نے اپنے سر کو پست کر لیا..... فَرَسَهُ: گھوڑے کو تیز دوڑانے کے لئے اس کی دونوں رانوں میں ایز لگانا۔ طَاطَأَتِ الْمَرْأَةُ بِسَرِّهَا: عورت کا پردہ ڈالنا۔ طَاطَأَ يَذَّةً بِالْعَيْنِ: نگام کو ڈھیل چھوڑنا..... السُّحْفُورَةُ: گڑھے کو گہرا کرنا۔ فَلَانٌ بِنِ فَلَانٍ: کسی کو مرنے سے گرا دینا۔ طَاطَأَ فِي قَتْلِ الْقَوْمِ: قوم کے قتل کرنے میں مبالغہ کرنا۔ حتی برتا۔	طَبَّ: الرَّجُلُ: مشک کے سوراخ پر پوند لگانا۔ طَبَّ مَطَابَةً: الاَمْرُ: مزاولت کرنا۔ کہا جاتا ہے "أَنَا أَطَابُ هَذَا لِأَمْرٍ مُنْذَجِينَ نَحْنُ أَبْلَغُهُ" یعنی میں ایک مدت سے اس امر کی مشق و مزاولت کر رہا ہوں تاکہ اس کو حاصل کر لوں۔	طَبَّ: الرَّجُلُ: کپڑے کھال یا بادل کا مستطیل ٹکڑا۔ والطَّابَةُ مِنَ الْخُرُزِ: مشک کے نچلے حصہ میں دوسراخوں کے درمیان کا چیزا۔ الطَّبِيبُ: فَنُ: طب کا جاننے والا۔ فَنُ: طب کا ماہر۔ نَجَّطَهُ: أَطْبَاءُ: مَوْتٌ طَبِيبَةً: المَطْبُوبُ: سحر زدہ جس پر جادو کا اثر ہو۔ طَبِخَ (س) طَبَخًا: الرَّجُلُ: بے وقوف ہونا۔ صفت أَطْبَحَ..... عَلِيٌّ رَأْسَهُ وَعَلَى كُلِّ أَجْوَفٍ: سر پر یا ہر کھوکھلی چیز پر مارنا۔ تَطَبَّخَ: فِي الْكَلَامِ: مختلف رنگوں میں رنگنا۔
تَطَاطَأُ: پست ہونا۔ الطَّاطَأُ: پست زمین۔ چھوٹا اونٹ۔ الطَّاءُ: کچھڑ۔ طَبَّ: (ن ض) طَبًا: علاج کرنا۔ طَبَّ الرَّجُلُ: جلد بازی نہ کرنا۔ نرمی کرنا اور اسی سے مثل ہے "مَنْ أَحَبَّ طَبَّ" یعنی جو دوست رکھتا ہے نرمی کرتا ہے اور کہا جاتا ہے "إِصْنَعُهُ صِنْعَةً مَنْ طَبَّ لِمَنْ حَبَّ" یعنی معاملہ کرو اس شخص جیسا جو کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو نرمی کرتا ہے..... خَسِرَ الْقَبْرِيَّةُ: مشک میں پوند لگانا۔ عام لوگ کہتے ہیں "طَبَّ عَلِيٌّ وَجِهَهُ" یعنی وہ اپنے منہ کے بل اوندھا ہو گیا اور صواب آکٹ ہے اور کہا جاتا ہے "مَا كُنْتُ طَبِيًّا وَلَقَدْ طَبَّتُ" اور طَبِيبٌ" یعنی تم طبیب نہیں تھے اور بن گئے۔	تَطَبَّبَ: الرَّجُلُ: طَبِيبٌ بِنَا..... لِفُلَانٍ: علاج کرانا۔ اسْتَطَبَّهُ: دوا تجویز کرنا۔ الطَّبَّ: طَبِيبٌ: حاذق۔ کہا جاتا ہے "هُوَ طَبَّ بِهَذَا الْأَمْرِ" یعنی وہ اس امر کا عالم ہے۔ طَبِيبٌ۔ الطَّبَّ: ارادہ۔ خواہش۔ حال۔ شان۔ عادت۔ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ طَبِيبٌ الْمَجُونُ" فلاں کی عادت مذاق کی ہے۔ الطَّبَّ. وَالطَّبَّ وَالطَّبَّ: جسمانی اور روحانی علاج۔ نرمی۔ جادو۔ الطَّبَابِ: جس سے علاج کیا جائے۔ کہا جاتا ہے "هَذَا طَبَابٌ مَرَضِكُ" یعنی یہ تمہارے مرض کا علاج ہے۔ الطَّبَّةُ: مَوْتٌ۔ طَبَّ: گوشہ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ فِي يَلْكِ الطَّبَّةِ" یعنی وہ اس گوشہ میں ہے۔ الطَّبَّةُ نَجَّطِيبَةُ نَجَّ طَبَابٌ: زمین	طَبَّخَ: (ف ن) طَبَخًا وَطَبَّخَ: اللَّحْمُ: گوشت پکانا۔ طَبَّخَ الصَّبِيَّ: بچہ کا حرکت کرنا۔ بڑھنا۔ اِنطَبَّخَ: پکانا۔ اَطْبَحَ: الرَّجُلُ: اپنے لئے پکانا..... اللَّحْمُ: گوشت پکانا۔ الطَّبِخُ وَالطَّبِخُ: جو کچھ پکایا جائے۔ الطَّبَاخَةُ: ہانڈی کے جھاگ۔ کچی ہوئی چیز۔ الطَّبَاخَةُ: باروچی گیری۔ الطَّبَاخُ: پکانے والا اور اس کو طباخی بھی کہتے ہیں اور استعمال عوام میں طَبَاخُ کا اطلاق ایشیائی پر ہوتا ہے اور حسن یہ ہے کہ اس کو منصب کہا جائے۔ الطَّبِيبُ: کچی ہوئی چیز۔ چونہ۔ کچی امنت۔ نَجَّ أَطْبِخَةَ: طَبَاخُ: پکانے والا۔ سخت بخارا۔

الطَّبَاخَةُ: مَوْتٌ طَابِعٌ: دوپہر۔

الطَّبَاخُ وَالطَّبَاخُ: مَضْبُوبٌ - قَوْتُ - مَوْتًا - پالا۔
کہا جاتا ہے "مافی کلامہ طَبَاخٌ" یعنی کوئی فائدہ نہیں۔

الاطْبِخُ: بہت زیادہ بے وقوف۔

المَطْبُخُ: باورچی خانہ۔ ج مطْبَاخ۔

المِطْبُخُ: پکانے کا اوزار۔ ج مطْبَاخ۔

المُطْبِخُ وَالْمُطْبِخُ: باورچی خانہ۔

طَبَّرَ: (ن) طَبَّرًا: اچھلنا۔ کودنا۔ چھیننا۔

الطَّبْرُ وَالطَّبْرُزَيْنُ: کھاڑا (یہ دونوں کلمے

دخیل ہیں)

الطَّبَارُ: انجیر کے مشابہ درخت۔ واحد

طَبَّارَةٌ۔

الطَّبْرِيُّ: طبرستان کی طرف منسوب۔

طَبَّرَةٌ: (ن) طَبَّرًا: بھردینا۔

الطَّبْرُ: پہاڑ کا مضبوط کنارہ۔ دو کو بان کا

اُوتٹ۔

طَبَّسَهُ: گارے سے لپٹا۔

الطَّبْسُ: ہر ایک کا لی چیز۔

الطَّبْسُ: بھیریا۔

بَحْرُ طَبْسٍ: بہت پانی والا سمندر۔

الطَّبْسُ: لوگ۔

الطَّبْشُورَةُ: چاک جو کہ سیاہ تختہ یا سلیٹ پر

لکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

الطَّبْشَةُ: استعمال عوام میں بچوں کے مارنے

کی لمبی چھری اور فتح لفظ مخففہ ہے۔

طَبَّطَبَ طَبَّطَبَةً: الماءُ او السَّيْلُ: پانی یا

سیلاب کا آواز کرنا۔ السَّوَادِيُّ: وادی کا

بہنا۔ الماءُ: پانی کو حرکت دینا۔

الطَّبَّاطِيَّةُ: گید کا بلا۔

الطَّبَّاطِيَّةُ: کوزا۔

طَبَّعَ: (ف) طَبَّعًا: الشَّيْءُ: کسی چیز کی تصویر

بنانا۔ عَليهِ: مہر لگانا۔ المِدْرَهَمُ: سکہ

ڈھالنا۔ السَّيْفُ: تلوار بنانا۔ ڈھالنا۔

اللَّهَ الخَلْقُ: پیدا کرنا۔ السَّدْوُ: ڈول

بھرننا۔ کہا جاتا ہے "طَبَّعَ اللّٰهُ عَلٰی قَلْبِهِ"

یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر کر دی

جس کی وجہ سے وہ خیر کی توفیق سے محروم ہے۔

طَبَّعَ: (س) طَبَّعًا: میلا پکچلا ہونا۔ عیب دار

ہونا۔ السَّيْفُ: تلوار کا زنگ آلود ہونا۔

صفت طَبَّعٌ وَأَطْبَعُ۔

طَبَّعَ: عَلٰی الجَهْلِ: پیدا کیا جانا۔

طَبَّعَ: الانْءَاءُ: بھردینا۔ گندا کرنا۔ عوام

کہتے ہیں "طَبَّعَ الذَّابَّةُ" یعنی سدھالیا۔ فصیح

لفظ اس کے لئے "راضھا" ہے۔

تَطَبَّعَ: بھرجانا۔ ڈھالنا۔ يَطْبَعُ: أَبِيهِ:

باپ کے اخلاق اختیار کرنا۔ السَّهْرُ:

بالماءُ: مہر کا کناروں سے بہہ نکلنا۔

انطَبَعَ: بھرجانا۔ ڈھلنا۔

الطَّبَّعُ: پیدا آئی عادت۔ مثال۔ نمونہ۔ کہا

جاتا ہے "اضربہ علی طَبَّعِ هَذَا" یعنی اس کو

اس کے نمونہ پر بناؤ۔ ج طَبَّعًا۔

الطَّبَّعُ: پانی جذب ہونے کی جگہ۔ پیمانہ بھر۔

مَشْكَزُهُ۔ نہر ج طَبَّوعٌ وَطَبَّاعٌ (.....)

وَالطَّبَّاعُ: زنگ میل پھیل۔ عیب۔ ج

أَطْبَاعٌ۔

الطَّبَّاعُ: کینہ۔ سَيْفٌ طَبَّعٌ: زنگ آلود تلوار۔

الطَّبَّاعُ وَالطَّبَّاعُ: ظنی عادت۔

الطَّبَّاعُ وَالطَّبَّاعُ: مہر۔ ہر وہ چیز جس سے مہر

کی جائے۔ ج طَبَّوَابِعُ: کہا جاتا ہے "هَذَا

كَلَامٌ عَلَيهِ طَبَّاعُ الفَصَاحَةِ" یعنی یہ ایسا

کلام ہے جس پر فصاحت کی مہر ہے۔

طَبَّوَابِعُ التَّرْيِيدِ: خط پر لگانے کے لئے ڈاک

ٹکٹ جو کہ اندرون اور بیرون خطوط پر لگائی

جاتی ہیں۔

الطَّبَّوَابِعُ الامِيرِيَّةُ: رسید ٹکٹ یعنی مالی

معاملات میں ٹکٹ دستخط یا توثیق کے لئے

لگائی جاتی ہے۔

الطَّبَّوَابِعُ الفَنَاصِيَّةُ: حکومت کی طرف سے

ٹکٹ جو کہ سفارتخانوں میں استعمال کی جاتی

ہیں۔

الطَّبَّاعُ: طَبَّاعُ: اسم فاعل کا مبالغہ۔

الطَّبَّاعَةُ: تلوار سازی۔ چھاپنے کا پیشہ۔

ذَارُ الطَّبَّاعَةِ: تلوار سازی کا کارخانہ۔

چھاپنے کی جگہ۔

الطَّبَّاعَةُ: ظنی وجہی عادت۔ ج طَبَّاعٌ۔

الطَّبَّاعُ الأَرْبَعُ: سردی۔ گرمی۔ خشکی۔

تری۔

الطَّبَّاعِيُّ: جو طبیعت کے ساتھ متفق ہو۔ جو ہر

چیز کو طبیعت کی طرف منسوب کرے۔ جو علم

طبیعیات کا ماہر ہو اور علم طبیعیات وہ علم ہے

جس میں طبايع اشياء سے بحث کی جائے۔

الطَّبَّاعَانُ: مہر۔ کہا جاتا ہے "هَذَا طَبَّاعَانُ

الامير" یہ امیر کی مہر ہے۔

المَطْبَعَةُ وَالْمَطْبَعُ: چھاپنے کی جگہ۔ ج

مَطْبَاعٌ۔

المَطْبَعَةُ: چھاپنے کا آلہ۔ پریس۔ ج

مَطْبَاعٌ۔

المَطْبُوعُ: مطبوع۔ چھاپا ہوا۔ پسندیدہ۔ من

الشعراء: جو بلا تکلف اشعار کہے۔

طَبَّقَتْ (س) طَبَّقًا وَطَبَّقَايْذُهُ: بند ہونا۔

پہلو سے لگنا۔ طَبَّقَ يَفْعَلُ الشَّيْءُ: شروع

کرنا۔ کرنے لگنا۔

طَبَّقَ الشَّيْءُ: عام ہونا۔ السَّحَابُ الجَوِّ:

بادل کا نضا کو گھیر لینا۔ الماءُ وَجْهٌ

الأرضِ: ڈھانچ لینا۔ السَّيْفُ المَفْضَلُ:

تلوار کا جوڑ کو جدا کرنا۔ کہا جاتا ہے "أَنَّه

يُطَبَّقُ المَفْضَلُ" جبکہ حجت میں غالب ہو۔

طَبَّقَ السَّحَابُ فِي حُكْمِهِ: حاکم کا درست

فیصلہ کرنا۔ الفَرَسُ فِي عَدْوِهِ: دوڑنے

میں ایک ساتھ دونوں ٹانگوں کو اٹھانا اور اکٹھا

ہی رکھنا۔

طَابَقَتْ طَبَّاقًا وَمُطَابَقَةٌ: موافقت کرنا۔

طَابَقَ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ: دونوں کو ایک طریقہ پر

کرنا۔ بَيْنَ قِيمَتَيْنِ: ایک کے اوپر ایک

پہننا۔ عَلى الأَمْرِ: برابری کرنا۔

السَّرْجُلُ عَلٰی العَمَلِ: حاوی ہونا۔

بِالْحَقِّ: اقرار کرنا۔ یقین کرنا۔ المَقْبَلُ:

قیدی کا چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا۔

السَّرْسُ فِي جَرْبِهِ: اگلی ٹانگوں کی جگہ میں

طَابَنَةٌ: موافق ہونا۔ طَابَنَ الْحَفِيْرَةَ: گہرا کرنا۔

إِطْبَانٌ إِطْبَانًا: بالمكان: مطمئن ہونا۔ الطَّبْنُ وَالطَّبْنُ: بڑی جماعت۔ کہا جاتا ہے "أَيُّ الطَّبْنِ هُوَ" یعنی وہ کون آدمی ہے۔

الطَّبْنُ: طنبور یا بربط۔ الطَّبْنُ: گھڑا کرکٹ جس کو ہوا اڑا لائے۔

الطَّبْنُ وَالطَّبْنُ وَالطَّبْنُ وَالطَّبْنُ: مردار جو گدھوں اور درندوں کے شکار کے لئے جال میں رکھا جائے۔ اعرابوں کا ایک کھیل۔

الطَّبْنَةُ: سمجھ۔ راج طَبْن۔ الطَّبْنَةُ: طنبور کی آواز۔ ایک کھیل۔

الطَّبَانُونَ: گڑھا جس کی حفاظت کے لئے آگ کو دبا دیا جائے۔

الطَّبْنَجَةُ: چمچ۔ راج طَبْنَجَاتٍ۔ طَبَاهُ يَطْبُوهُ طَبْوًا وَأَطْبَاهُ أَطْبَاءٌ: پکارنا۔ بلانا۔

طَبَاهُ يَطْبِيهِ طَبِيًا: بھینچنا۔ عَنَهُ: ہزار کھنا۔ عَنَهُ: بلانا۔

طَبِيَتْ تَطْبِي طَبِيًا: ناقہ: ڈھیلے تھنوں والی ہونا۔

أَطْبَاهُ أَطْبَاءٌ: بلانا۔ الطَّبِي وَالطَّبِي: تھن گدھی، گھوڑی، اونٹنی اور مادہ درندوں کا۔ راج أَطْبَاءُ۔

الطَّبْوَاءُ وَالطَّبِيَّةُ: مِنَ النُّوقِ: ڈھیلے تھنوں والی اونٹنی۔

طَثٌ: (س) خَلْفًا: الشَّيْءُ: پاؤں یا پتھلی سے مار کر جگہ سے ہٹانا۔

الطَّثُ: بچوں کا ایک کھیل جس میں گول کڑی کو پھینکتے ہیں۔

المَطَّطَةُ: بچوں کے کھیل کی ایک گول کڑی۔

طَطَّرَ: (ن) طَطَّرًا وَطَطَّرًا وَطَطَّرَ: اللَّبَنُ: دودھ کا بالائی والا ہونا۔ صفت طَطَّرٌ۔

الطَّطْرَسَةُ: کبوتر۔ کائی۔ بالائی۔ غلیظ پانی۔ وسعت عیش۔ بھیر کا اون۔

أَطَطَّرَ الشَّيْءُ: زیادہ کرنا۔

ب X ج = ب X ج = ب X ج
(س) + (س) = (س) + (س) + (س) + (س)

الطَّبَقَةُ: مرتبہ۔ حال۔ کہا جاتا ہے "ان كُنْبَهُ إِلَى طَبَقَةٍ" اس کے خطوط میری طرف متواتر آئے۔ راج طَبَقَاتٍ۔

الطَّبِقُ: بند۔ الطَّبِيقِيُّ: رات کا ایک حصہ۔ راج طَبِيقٌ (..... وَالطَّبِيقُ): مطابق۔ کہا جاتا ہے "هَذَا طَبِيقٌ ذَاكٌ" او طَبِيقُهُ" یعنی یہ اس کے مطابق اور موافق ہے۔ طَبِيقُ الْأَرْضِ: زمین کی سطح۔

الطَّبَائِقُ وَالطَّبَائِقُ: کڑا ہی۔ آدمی بکری۔ راج طَوَائِقُ وَطَوَائِقُ۔

الطَّبَائِقُ وَالطَّبَائِقُ وَالطَّبَائِقُ: شیشہ۔ بڑی کچی اینٹ (اور یہ دھیل ہے)

المُطَبِقُ: زمین کے نیچے قید خانہ۔ المَجُونُ المُنطَبِقُ: لگا تار جنوں۔ مَسْنَةُ مُطَبِقَةٌ: سخت قیو۔ المُنطَبِقَاتُ: مہمیتیں۔ الخُرُوفُ المُنطَبِقَةُ: جس میں ش و ط۔

المُنطَبِقُ: صاحب الرائے۔ مَسْحَابَةٌ مُطَبِقَةٌ: تمام زمین پر برسنے والا بادل۔

طَبَلٌ: (ن) طَبْلًا وَطَبْلٌ: ڈھول بجانا۔ عوام کہتے ہیں "طَبْلٌ فِي المَشْيِ" یعنی چلنے میں تھک گیا اور صحیح لفظ (تَلَطُّ) ہے۔

الطَّبَلُ: ڈھول۔ راج طَبُولٌ وَأَطْبَالٌ۔ الطَّبَالُ: ڈھول بجانے والا۔

الطَّبَالَةُ: ڈھول بجانے کا پیشہ۔ الطَّبَلَةُ: ڈھولک۔

الطَّبَلِيَّةُ راج طَبَلِيَّاتٍ: گول میز جس پر روٹی کھائی جائے۔

الطَّبَلِيَّةُ: خراج کے روپے۔ راج طَبَلِيَّاتٍ۔ الطُّوْبَالَةُ: مادہ بھیر۔ راج طُوْبَالَاتٍ۔

طَبْنٌ: (ض) طَبْنًا: النَّارُ: آگ کو دبا دینا۔

طَبْنٌ (ض) طَبْنًا طَبْنٌ (س) طَبْنًا وَطَبْنًا وَطَبْنِيَّةٌ وَطَبْنِيَّةٌ وَطَبْنُونَةٌ: الشَّيْءُ وَاللَّشْيُ: سمجھ دار ہونا۔ صفت طَبْنٌ وَطَبْنٌ۔

طَبْنٌ (ض) طَبْنًا طَبْنٌ (س) طَبْنًا وَطَبْنًا وَطَبْنِيَّةٌ وَطَبْنِيَّةٌ وَطَبْنُونَةٌ: الشَّيْءُ وَاللَّشْيُ: سمجھ دار ہونا۔ صفت طَبْنٌ وَطَبْنٌ۔

طَبْنٌ (ض) طَبْنًا طَبْنٌ (س) طَبْنًا وَطَبْنًا وَطَبْنِيَّةٌ وَطَبْنِيَّةٌ وَطَبْنُونَةٌ: الشَّيْءُ وَاللَّشْيُ: سمجھ دار ہونا۔ صفت طَبْنٌ وَطَبْنٌ۔

طَبْنٌ (ض) طَبْنًا طَبْنٌ (س) طَبْنًا وَطَبْنًا وَطَبْنِيَّةٌ وَطَبْنِيَّةٌ وَطَبْنُونَةٌ: الشَّيْءُ وَاللَّشْيُ: سمجھ دار ہونا۔ صفت طَبْنٌ وَطَبْنٌ۔

مچھلی ناگوں کو رکھنا۔ أَطْبَقَ الشَّيْءُ: ڈھانچنا۔ اللَّيْلُ: تاریک ہونا۔ السُّجُومُ: کثرت سے ظاہر ہونا۔

الرَّحِي: ایک پاٹ کو دوسرے پاٹ پر رکھنا۔ کہا جاتا ہے "أَطْبَقَ شَفْتَيْكَ" یعنی چپ رہ۔ أَطْبَقَ السَّرَائِعُ: رکوع کی حالت میں دونوں ہاتھوں کو گھٹنے کے درمیان کر لینا۔ أَطْبَقُوا: عَلَى الأَمْرِ: اجماع کر لینا۔ أَطْبَقَتِ الحُمَى: بخار کا لگا تار رہنا۔ کہا جاتا ہے "مَا أَطْبَقَ فُلَانًا" یعنی وہ کیسا حاذق ہے۔

تَطَابَقَ القَوْمُ: اتفاق کر لینا۔ تَطَبَّقَ وَأَنْطَبَقَ: الشَّيْءُ: بند ہونا۔ الطَّبِيقُ: مطابق۔ کہا جاتا ہے "هَذَا طَبِيقٌ ذَاكٌ" یعنی یہ اس کے مطابق ہے۔ دن کا حصہ۔ لاسہ جس سے پرندوں کا شکار کیا جائے۔ ایک درخت کا پھل الطَّبِيقِيُّ مِنَ النَّاسِ: جماعت۔

الطَّبِيقُ: مطابق۔ پردہ۔ طَشْرِي: راج أَطْبَاقِ الطَّبِيقُ: سطح زمین۔ ریڑھ کی ہڈی۔ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ: دن رات کا بڑا حصہ۔ کہا جاتا ہے "أَقْمَطُ عِنْدَهُ طَبَقًا مِنَ النَّهَارِ" یعنی میں نے اس کے پاس دن کے بڑے حصے میں اقامت کی۔ مِنَ المَطَرِ: عام بارش۔

کہا جاتا ہے "مَطَرٌ طَبِيقٌ وَدِيْمَةٌ طَبِيقٌ: حال۔ کہا جاتا ہے "السَّهْرُ أَطْبَاقٌ" یعنی زمانے کے مختلف احوال ہیں۔ جماعت۔ کہا جاتا ہے "مَضَى طَبِيقٌ بَعْدَ طَبِيقٍ" یعنی ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت گزر گئی۔ "جَسَاءٌ طَبِيقٌ مِنَ جَبْرَادٍ" یعنی ٹڈیوں کی جماعت آئی۔ "أَطْبَاقِي الرَّاسِ" سر کی ہڈیاں۔ بَسَاتٌ طَبِيقِي: مہمیتیں۔ کچھوے۔

سانپ۔ أُمُّ طَبِيقِي: مصیبت۔ الطَّبِيقَةُ: جال۔ چند دن کا ایک حصہ۔ راج طَبِيقٌ وَطَبِيقٌ۔

المُطَابِقَةُ: (ع ج): دو برابر مقداروں کا مجموعہ ان میں حروف کی مقدار جو بھی ہو۔

المُطَابِقَةُ: (ع ج): دو برابر مقداروں کا مجموعہ ان میں حروف کی مقدار جو بھی ہو۔

المُطَابِقَةُ: (ع ج): دو برابر مقداروں کا مجموعہ ان میں حروف کی مقدار جو بھی ہو۔

المُطَابِقَةُ: (ع ج): دو برابر مقداروں کا مجموعہ ان میں حروف کی مقدار جو بھی ہو۔

المُطَابِقَةُ: (ع ج): دو برابر مقداروں کا مجموعہ ان میں حروف کی مقدار جو بھی ہو۔

المُطَابِقَةُ: (ع ج): دو برابر مقداروں کا مجموعہ ان میں حروف کی مقدار جو بھی ہو۔

المُطَابِقَةُ: (ع ج): دو برابر مقداروں کا مجموعہ ان میں حروف کی مقدار جو بھی ہو۔

المُطَابِقَةُ: (ع ج): دو برابر مقداروں کا مجموعہ ان میں حروف کی مقدار جو بھی ہو۔

المُطَابِقَةُ: (ع ج): دو برابر مقداروں کا مجموعہ ان میں حروف کی مقدار جو بھی ہو۔

المُطَابِقَةُ: (ع ج): دو برابر مقداروں کا مجموعہ ان میں حروف کی مقدار جو بھی ہو۔

المُطَابِقَةُ: (ع ج): دو برابر مقداروں کا مجموعہ ان میں حروف کی مقدار جو بھی ہو۔

طَحْنُ: (ن) طَحْنًا وَطَحْنًا. الشئُ: بھونا۔	و طَحَلَاتٌ.	طَوَاجِنُ: الطَّاحِنُ وَالطَّيِّجُنُ: بکڑا ہی۔ ج طَیَاجِنُ وَطَوَاجِنُ (اور یہ دونوں لگے دخیل ہیں) الْمُطَّحِنُ: بھنا ہوا۔
طَحْرَثُ (ف) طَحْرَا. العینُ قَدَاها: خس و خاشاک کو دور کرنا۔ نکال پھینکنا۔ صفت طَحْرُوثَةٌ الریحُ السَّحَابُ: ہوا کا بادل کو اُڑانا۔	الطَّحِلُ: بڑی تلی والا۔ غضبناک۔ بھرا ہوا۔ کچھڑا والا پانی۔	طَحْرَا وَطَحْرَا وَطَحْرَا: طَحْرُ (ش) طَحْرًا وَطَحْرًا وَطَحْرًا: آہ کرنا۔
طَحْرُ وَالطَّحْرُ: متفرق پتلے پتلے بادل۔ الطَّحْرُ وَالطَّحْرِيَّةُ: بادل کا ٹکڑا۔ الطَّحْوَرُ: جلدی کرنے والا۔ الطَّحْوَرُ وَالْمَطَّحَرُ: مِنَ الْقَيْسِيِّ: دوپھینکنے والی کمان۔	الطَّحْلُ: بڑی تلی والا۔ غضبناک۔ بھرا ہوا۔ کچھڑا والا پانی۔	الطَّحْرُ وَالطَّحْرِيَّةُ: متفرق پتلے پتلے بادل۔ الطَّحْوَرُ: جلدی کرنے والا۔ الطَّحْوَرُ وَالْمَطَّحَرُ: مِنَ الْقَيْسِيِّ: دوپھینکنے والی کمان۔
طَحْرُ (ش) طَحْرًا وَطَحْرًا وَطَحْرًا: آہ کرنا۔	طَحْلَبُ. المَاءُ: کالی والا ہونا۔ صفت مُطَّحَلِبٌ. مُطَّحَلِبٌ..... الأَرْضُ: سرسبز ہونا۔ الرَّجُلُ: قتل کرنا۔	طَحْرُ (ش) طَحْرًا وَطَحْرًا وَطَحْرًا: آہ کرنا۔
الطَّحْرُ وَالطَّحْرِيَّةُ: متفرق پتلے پتلے بادل۔ الطَّحْوَرُ: جلدی کرنے والا۔ الطَّحْوَرُ وَالْمَطَّحَرُ: مِنَ الْقَيْسِيِّ: دوپھینکنے والی کمان۔	الطَّحْلَبُ: شدید سبز رنگ کی تیل جس کے پتے اور بیج ہوتی ہے لیکن تان نہیں ہوتا دور دور تک پھیل جاتی ہے درختوں اور مکانوں پر عام چڑھ جاتی ہے۔	الطَّحْرُ وَالطَّحْرِيَّةُ: متفرق پتلے پتلے بادل۔ الطَّحْوَرُ: جلدی کرنے والا۔ الطَّحْوَرُ وَالْمَطَّحَرُ: مِنَ الْقَيْسِيِّ: دوپھینکنے والی کمان۔
الطَّحْرُ وَالطَّحْرِيَّةُ: متفرق پتلے پتلے بادل۔ الطَّحْوَرُ: جلدی کرنے والا۔ الطَّحْوَرُ وَالْمَطَّحَرُ: مِنَ الْقَيْسِيِّ: دوپھینکنے والی کمان۔	الطَّحْلَبُ وَالطَّحْلَبُ وَالطَّحْلَبُ: کالی۔ ایک ٹکڑا کالی کا۔	الطَّحْرُ وَالطَّحْرِيَّةُ: متفرق پتلے پتلے بادل۔ الطَّحْوَرُ: جلدی کرنے والا۔ الطَّحْوَرُ وَالْمَطَّحَرُ: مِنَ الْقَيْسِيِّ: دوپھینکنے والی کمان۔
الطَّحْرُ وَالطَّحْرِيَّةُ: متفرق پتلے پتلے بادل۔ الطَّحْوَرُ: جلدی کرنے والا۔ الطَّحْوَرُ وَالْمَطَّحَرُ: مِنَ الْقَيْسِيِّ: دوپھینکنے والی کمان۔	طَّحْلَبِيَّةُ: کہا جاتا ہے "فَمَا عَلَيْهِ طَّحْلَبِيَّةٌ" یعنی اس کے اوپر بال نہیں۔	الطَّحْرُ وَالطَّحْرِيَّةُ: متفرق پتلے پتلے بادل۔ الطَّحْوَرُ: جلدی کرنے والا۔ الطَّحْوَرُ وَالْمَطَّحَرُ: مِنَ الْقَيْسِيِّ: دوپھینکنے والی کمان۔
الطَّحْرُ وَالطَّحْرِيَّةُ: متفرق پتلے پتلے بادل۔ الطَّحْوَرُ: جلدی کرنے والا۔ الطَّحْوَرُ وَالْمَطَّحَرُ: مِنَ الْقَيْسِيِّ: دوپھینکنے والی کمان۔	طَّحْمُ (ف) طَّحْمَةٌ. عَلَيْهِ: کودنا اور حملہ کرنا اور یہ استعمال عوام ہے اور ممکن ہے کہ یہ قححہ کی تحریف ہو۔	الطَّحْرُ وَالطَّحْرِيَّةُ: متفرق پتلے پتلے بادل۔ الطَّحْوَرُ: جلدی کرنے والا۔ الطَّحْوَرُ وَالْمَطَّحَرُ: مِنَ الْقَيْسِيِّ: دوپھینکنے والی کمان۔
الطَّحْرُ وَالطَّحْرِيَّةُ: متفرق پتلے پتلے بادل۔ الطَّحْوَرُ: جلدی کرنے والا۔ الطَّحْوَرُ وَالْمَطَّحَرُ: مِنَ الْقَيْسِيِّ: دوپھینکنے والی کمان۔	الطَّحْمَةُ. مُتَلَفَةٌ. مِنَ النَّاسِ: جماعت۔ مِنَ السَّيْلِ: سیلاب کا زور۔ مِنَ اللَّيْلِ: بہت تاریکی (والطَّحْمَاءُ): ایک قسم کی سبزی۔	الطَّحْرُ وَالطَّحْرِيَّةُ: متفرق پتلے پتلے بادل۔ الطَّحْوَرُ: جلدی کرنے والا۔ الطَّحْوَرُ وَالْمَطَّحَرُ: مِنَ الْقَيْسِيِّ: دوپھینکنے والی کمان۔
الطَّحْرُ وَالطَّحْرِيَّةُ: متفرق پتلے پتلے بادل۔ الطَّحْوَرُ: جلدی کرنے والا۔ الطَّحْوَرُ وَالْمَطَّحَرُ: مِنَ الْقَيْسِيِّ: دوپھینکنے والی کمان۔	الطَّحْمَةُ: سخت جنگجو۔ بہت اُونٹ۔ الطَّحْمُومُ: تیز بانگنے والا۔ الْمُطَّحْمُومُ: بھرا ہوا۔	الطَّحْرُ وَالطَّحْرِيَّةُ: متفرق پتلے پتلے بادل۔ الطَّحْوَرُ: جلدی کرنے والا۔ الطَّحْوَرُ وَالْمَطَّحَرُ: مِنَ الْقَيْسِيِّ: دوپھینکنے والی کمان۔
الطَّحْرُ وَالطَّحْرِيَّةُ: متفرق پتلے پتلے بادل۔ الطَّحْوَرُ: جلدی کرنے والا۔ الطَّحْوَرُ وَالْمَطَّحَرُ: مِنَ الْقَيْسِيِّ: دوپھینکنے والی کمان۔	طَخُنُ: (ف) طَخْنًا وَطَخْنًا. البئرُ: گیبوں جیسا..... المُنْبِيَةُ القَوْمُ: ہلاک کرنا۔ طَخَسْتُ الاقْضَى: سانپ کا کندلی مارنا۔ صفت مَطَّحَانٌ.	الطَّحْرُ وَالطَّحْرِيَّةُ: متفرق پتلے پتلے بادل۔ الطَّحْوَرُ: جلدی کرنے والا۔ الطَّحْوَرُ وَالْمَطَّحَرُ: مِنَ الْقَيْسِيِّ: دوپھینکنے والی کمان۔
الطَّحْرُ وَالطَّحْرِيَّةُ: متفرق پتلے پتلے بادل۔ الطَّحْوَرُ: جلدی کرنے والا۔ الطَّحْوَرُ وَالْمَطَّحَرُ: مِنَ الْقَيْسِيِّ: دوپھینکنے والی کمان۔	تَطَخَنُ: چینا۔ الطَّيْحَنُ وَالطَّيْحِينُ: بیا ہوا آنا۔ الطَّاحِنَةُ: مَوْنُثُ طَاحِنٍ ذُو اَرْهْ-ج	الطَّحْرُ وَالطَّحْرِيَّةُ: متفرق پتلے پتلے بادل۔ الطَّحْوَرُ: جلدی کرنے والا۔ الطَّحْوَرُ وَالْمَطَّحَرُ: مِنَ الْقَيْسِيِّ: دوپھینکنے والی کمان۔
الطَّحْرُ وَالطَّحْرِيَّةُ: متفرق پتلے پتلے بادل۔ الطَّحْوَرُ: جلدی کرنے والا۔ الطَّحْوَرُ وَالْمَطَّحَرُ: مِنَ الْقَيْسِيِّ: دوپھینکنے والی کمان۔	طَخُنُ: (ن) طَخْنَا الشئُ: پھینکنا اور زور کرنا۔ (طَخُوخًا): بدخلق ہونا۔ السِّطَّخَةُ: ایک کڑوی جس سے بچ کھیلنے ہیں۔	الطَّحْرُ وَالطَّحْرِيَّةُ: متفرق پتلے پتلے بادل۔ الطَّحْوَرُ: جلدی کرنے والا۔ الطَّحْوَرُ وَالْمَطَّحَرُ: مِنَ الْقَيْسِيِّ: دوپھینکنے والی کمان۔
الطَّحْرُ وَالطَّحْرِيَّةُ: متفرق پتلے پتلے بادل۔ الطَّحْوَرُ: جلدی کرنے والا۔ الطَّحْوَرُ وَالْمَطَّحَرُ: مِنَ الْقَيْسِيِّ: دوپھینکنے والی کمان۔	طَخَسْتُ: (س) طَخَسْنَا. العینُ: آنکھ کا بے نور ہونا۔ طَخَسْتُ الشئُ: برابر کرنا۔ ایک کو دوسرے سے ملانا..... اللَّيْلُ: تاریک کرنا۔ تَطَخَسْتُ الشئُ: تاریک کرنا۔ السَّحَابُ: بادل گھر کر برابر ہونا۔ الطَّخَطَاخُ: گھر ہوا بادل۔ بدخلق۔ الطَّخَطَاخُ: تاریکی۔	الطَّحْرُ وَالطَّحْرِيَّةُ: متفرق پتلے پتلے بادل۔ الطَّحْوَرُ: جلدی کرنے والا۔ الطَّحْوَرُ وَالْمَطَّحَرُ: مِنَ الْقَيْسِيِّ: دوپھینکنے والی کمان۔

طَحْشٌ: يَطْحَشُ: الْقَيْنُ: اندھیرا ہونا۔
حَضْمٌ (ف) طَحْمًا و طَحْمٌ (ک)
طَحْمَةً: تکبیر کرنا۔

إِطْحَمَ: اللّخْمُ: خشک ہو کر سیاہی مائل ہونا۔
الطَّحْمَةُ: بکریوں کا گلہ۔
الطَّحْمَةُ: ناک کے اگلے حصہ کی سیاہی۔

الاطْحَمُ: جانور یا انسان کے ناک کا اگلا
حصہ (.....) وَالطَّحِيمُ: خشک گوشت۔

طَخًا يَطْخُوْنَ طَخْوًا و طَخْوًا: اللَّيْلُ:
تاریک ہونا۔

الطَّخَاءُ: بلند بادل۔ دل کی گھبراہٹ۔

الطَّخِيَّةُ و الطَّخِيَّةُ و الطَّخِيَّةُ: تاریکی۔
بادل کا ایک ٹکڑا۔ السَّخِيَّةُ: بے وقوف ج
طَخِيُونٌ.

الطَّخَوَاءُ و الطَّخِيَاءُ: مِنَ اللَّيَالِي: تاریک
راتیں۔

الطَّاحِيَّةُ: سخت تاریکی۔

طَرَّ (ن) طَرًّا: المَاشِيَّةُ: جانوروں کو زور
سے ہانکنا..... الإِبِلُ: اونٹوں کو اطراف سے
گھیرنا..... الشَّيْءُ: کاشنا..... القُوبُ: کپڑے

کو پھاڑنا۔ الإِبِلُ الجِبَالُ: اونٹوں کو پہاڑ کو
طے کرنا۔ طَرَّ القَوْمُ: کسی قوم پر گزرنا.....

السَّجَّحِينَ: چھری تیز کرنا۔ البَنِيَانُ: کسی
عمارت کی مرمت کرنا۔ السَّخْوَضُ: حوض کو

لیپنا..... السَّمَالُ: مال چھیننا اور اسی سے ہے
"طَرَّ عَقْلُهُ" فلانا: طمانچہ مارنا۔ دھنکارنا۔

طَرَّ: (ن) طَرًّا و طَرُّوْزًا: الشَّارِبُ او
السَّبَاتُ: موٹھی یا ناپا ت کا اگنا۔ طَرَّبَتْ

النُّجُوْمُ: ستاروں کا روشن ہونا..... يَذُّهُ: زخم
کی وجہ سے گر جانا۔ السَّرْجُلُ مِنَ السَّطْحِ:

گرتا۔

أَطَّرَهُ: گراتا۔ کاشنا۔ دھنکارنا۔ أَطَّرَهُ عَلِيٌّ
الْأَمِيْرُ: پرايخت کرنا۔

طَسَّرَتِ الجَارِيَّةُ: لڑکی کا اپنی زلفوں کو
سنوارنا۔

الطَّرُّ: کنارہ ج اَطَّرَا کہا جاتا ہے "هُوَ
يَحْمِي اَطَّرَا البلاد" یعنی وہ اطراف بلاد

کی حفاظت کرتا ہے۔ "وَجَاؤُا اَطَّرَا" یعنی
سب آئے۔

الطَّرَّةُ: کمر۔

الطَّرَّةُ: پيشانی۔ پيشانی کے بال۔ کپڑے کا
نقش و نگار۔ کنارہ۔ کتاب کا حاشیہ۔ نہر کا
کنارہ۔ وادی کا کنارہ۔ بادل کا لمبا ٹکڑا۔ ج

طُرَات و طُرَد و طُرَار و اَطَّرَار اور اس لفظ
کو اس علامت کے لئے بھی استعمال کرتے

ہیں جو شاہی فرامین وغیرہ میں لگایا جاتا ہے
جس میں بادشاہ کا نام مع لقب کے ہوتا ہے

اور صواب لفظ طُفْرَاء ہے۔

غَلَامٌ طَسَّرَا و طَسَّرَ: جوان جس کی میس
بھیک گئی ہوں۔ سِنَانٌ طَرِيْرٌ: تیز نیزہ۔

السُّطْرُ: فا۔ عَضْبٌ سُبَطْرٌ: بے موقع
غضب۔

الطَّرِيَانُ: تشری۔ طباق۔

المُطَّرَّةُ: عادت۔ کہا جاتا ہے "اللَّهُمَّ مُطَّرَّةُ
حَسَنَةَ" ان کی اچھی عادت ہے۔

طَرًّا: (ف) طَرًّا و طَرُّوْزًا: عَلَيْهِمْ: دور
سے اور اچانک آ جانا۔ کہا جاتا ہے "طَرَّرَهُ

عَلَى هَمٍّ لَا أُطِيقُهُ" میرے اوپر ایسا غم آ پڑا
ہے جس کی مجھے طاقت نہیں۔

طَسَّرُوْ: (ک) طَرَاءَةً و طَرَاءَةً:
النَّبَاتُ: تروتازہ ہونا۔ صفت طَرِيْرٌ.

أَطَّرَأَهُ: حد سے زیادہ مدح کرنا۔

الطَّارِي: فا۔ اچھی۔ مسافر۔ غیر اصلی۔ ج
طَرَاءَةً طَرَاءَةً.

الطَّارِيَّةُ: مَوْنَتٌ طَّارِي: مصیبت۔ ج
طَوَارِي و طَارِيَّات اور طَارِيَّةُ: کوان لوگوں

پر بھی بولا جاتا ہے جو غیر ملکی ہوں اور کسی جگہ
آباد ہو جائیں۔

الطُّسْرَانُ: راستہ۔ امر منکر۔ غیر پسندیدہ
بات۔ کہا جاتا ہے "حَمَامٌ طَرَّأَتِي" یعنی وہ

کبوتر جو نہ معلوم کہاں سے آیا "كَلَامٌ
طَّرَّأَتِي" جو کلام غیر پسندیدہ اور ادب و

تہذیب سے گرا ہوا ہو۔

طَرَّأَةُ: السَّبِيلُ: سیلاب کا زور۔

طَرِبْتُ: (س) طَرِبْنَا: خوشی یا غم سے جھومنا۔
صفت طَرِبْتُ.

طَرِبْتُ: گانا..... فَمِنْ صَوْتِهِ: سُرُوكَانَا.....

عَنِ الطَّرِيقِ: بھٹ جانا۔ طَرِبَهُ و اَطْرَبَهُ
و تَطْرَبُهُ: خوشی پر برا بھانت کرنا۔

اسْتَطْرَبْتُ: بہت خوش ہونا..... فَلَانَا: خوش
ہونے کو کہنا..... الإِبِلُ: حُدِي: سے حرکت

میں لانا۔

الطَّرُوبُ و المِطْرَابُ و المِطْرَابِيَّةُ: بہت
زیادہ خوش۔

المِطْرَبُ و المِطْرَابِيَّةُ: تنگ راستہ۔ ج
مِطْرَابُ: المِطْرَابُ: متفرق راستہ۔

المِطْرَبَالُ: ہر بلند عمارت۔ دور سے نظر
آنے والا جھنڈا۔ بڑی چٹان پہاڑ کی جو فضا

میں ہوج طَرَّابِيلُ. طَرَّابِيلُ الشَّامِ: ملک
شام کے گرجے۔

الطَّرْبِيلُ: گاجے کی مشین۔ ج طَرَّابِيلُ
طَرَّحَ: (ف) طَرَّحَا: الشَّيْءُ و بالشَّيْءُ:

پھینک دینا..... عَنَهُ: ڈال دینا اور دور کر
دینا۔ کہا جاتا ہے "طَرَّحَتْ النُّوْمِي بَفَلَانٍ

شَكْلَ مَطْرُوحٍ" یعنی فراق نے فلاں کو دور ڈال
دیا۔ طَرَّحَ القُوبُ عَلَيهِ: کسی چیز پر کپڑا

ڈالنا۔ طَرَّحَتْ الأَنْفِي: جمل گراتا۔ طَرَّحَ
العَاصِبُ: حساب کرنے والے کا کسی بڑے

عدو کو چھوڑ دینا..... عَلَيهِ المَسْأَلَةُ: مسالہ
پیش کرنا۔

طَرَّحَ: (س) طَرَّحَا: بدخلق ہونا۔ خوش
عیش ہونا۔

طَرَّحَ: طرح کا مبادلہ۔ طَرَّحَ بِهِ السَّفَرُ
إِلَى سَاحِلِيَّةٍ كَذَا: سفر نے اس کو فلاں گوشہ

میں پھینک دیا۔ طَرَّحَ الأَنْفِي: جمل گردانا
..... البِنَاءُ: عمارت کو بہت بلند کرنا۔

طَارَحَهُ مِطْرَا حَةً: الكلام او الشُّعْرَا و
العِنَاءُ: گفتگو یا شعر یا گانے میں مقابلہ کرنا۔

أَطْرَحَهُ: پھینک دینا۔ دور کر دینا۔
تَطَارَحَ: القَوْمُ الكلام و العِنَاءُ: ایک
کا دوسرے سے کلام یا گانے میں مقابلہ

کرنا۔

الطرح: ڈالا ہوا۔ پھینکا ہوا۔ حمل نام تمام۔

الطرح والطرُوح والطراح: مکان بعید۔

الطرُوح: لمبی شاخوں والا درخت خرما ج طُورُوح۔

الطرُوحَة: چادر بزرگ کی اور عوام کے نزدیک بمعنی اورھنی۔

الطرنیح: ڈالا ہوا پھینکا ہوا ج طُورُوحی۔

الطُوح: ڈالا ہوا پھینکا ہوا۔

الاطرُوحَة: سوال جو تم کسی کے سامنے پیش کرو۔

المطرُح: ڈالنے کی جگہ۔ بچانے کی جگہ۔

ج مطرُح: کہا جاتا ہے "مَطْرُحَك" هذا المطرُح، یعنی تمہیں اس میں کس نے ڈال دیا۔

طُرُف مطرُح: دور بین نگاہ۔ دُفُح مطرُح: لمبا نیزہ۔

المطرُح: مفع۔ قَوْلُ مطرُح: وہ قول جس کی طرف توجہ نہ کی جائے۔

الطرُحان والطرُحان: رہیں۔ ج طرُحانَة۔

الطرُحُون: ایک قسم کی نباتات ہے جس کا ریشہ عاقر قرحا ہے۔

الطرینح: ایک قسم کی چھوٹی مچھلی۔

اطرُحَم. اللیل: تاریک ہونا..... الزجل: نگاہ کمزور ہونا۔

طَرْدَة (ن) طَرْدًا وطَرْدًا: دور کرنا۔

علیحدہ کرنا۔ دھکارنا..... ہ من بلادہ: جلا وطن کرنا۔ طَرْدَة الأبل: ادھر سے ادھر سے جمع کر کے ہانکنا۔

طرد (س) طَرْدًا: شکار کا پیچھا کرنا۔

طَرْد السوط: اٹھانا۔ طَرْدَة عن البلد: جلا وطن کرنا۔

طَارِد طَارِدًا ومطَارِدَة. الأقران: ایک کا دوسرے کے اوپر حملہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "لَمْ فُرِطَان الطراد" وہ لوگ مدافعت کے

شہسوار ہیں۔

أطرد: جلا وطن کرنے کا حکم دینا۔ جلاوطن کرنا۔

تَطَارَد. القوم: بعض کا بعض پر حملہ کرنا۔

إنطرد: جلاوطن ہونا۔

إطرد: دور ہونا..... الأمر: ایک دوسرے کے پیچھے ہونا اور درست ہونا..... الأتھار: جاری ہونا..... القوم إلى المیسر: پے در پے چلنا۔

استطرد له: فریب دینے کے لئے شکست کو ظاہر کرنا۔ کلام کو اس طرح بیان کرنا کہ اس سے دوسرا کلام لازم آجائے۔ استطرد إليه الأمر: پہنچنا۔

الطرد: بھجور کے پودے۔ ج طُرُود۔

الطرد: پانی جس میں جانور گھستے ہوئے۔

الطراد. طَارَد: کا مہلہ۔ تیز رفتار جہاز کاشادہ مکان۔ لمبادن۔

الطرنید: دھکارا ہوا۔ بھاگنے والا جو تمہارے بعد پیدا ہوا اور تم بھی اپنے بعد پیدا ہونے والے کا طریقہ کہلائے گا..... من الأیام: لمبادن۔ الطرنیدان: رات دن۔

الطرنیسة: بھاگایا ہوا شکار ریشم وغیرہ کا مستطیل ٹکڑا۔ چرا یا ہوا اونٹ۔ تور وغیرہ کے صاف کرنے کے لئے بھیجا ہوا چیتھرا۔ ج طراند۔

الطراد: کہا جاتا ہے "فلان یمشی مشیا طرادا" یعنی فلاں سیدھی چال چلتا ہے۔

چھوٹا نیزہ۔

المطرد: چھوٹا نیزہ۔ ج مطارڈ۔

یوم مطرد: لمبادن۔

حکم مطرد: عام حکم اور اسی سے ہے "بقاعدة مطردة"۔

المطرقة والمطرقة: وسط شاہراہ۔

المطرقة: دھکارنے کا سبب۔

طرد (س) طَرْدًا: بدظنی کے بعد اچھا اخلاق ہونا..... فی الملبس: لباسِ فاخرہ استعمال کرنا۔

طرزہ: (ن) طَرْدًا: گھونہ مار کے ہٹانا۔

طَرَز. القوت: تیل بوئے بنا۔

تَطَرَز. القوت: تیل بوئے والا ہونا۔ فی

لبسہ: لباسِ فاخرہ پہننا۔

الطرز: ہیئت۔ طریقہ۔ ترتیب۔

الطرز: کپڑے کا نقش و نگار۔ مقام جہاں کپڑے اچھے بوئے جائیں۔ طریقہ۔ کہا جاتا ہے "هذا علی طراز ذاک" یعنی یہ اس کے طریقہ پر ہے "لیس هذا من طراز ذاک" یعنی یہ اس کے طریقہ پر ہے۔

"لیس هذا من طراز ذاک" یعنی یہ تمہارے طور و طریقے پر نہیں۔ ج طُرُز۔

الطرزاة: تیل بوئے بنانے کا پیشہ۔

الطرزاة والمطرز: تیل بوئے بنانے والا۔

طرس (ض) طَرَسًا. الشی: مٹانا..... الکتاب: لکھنا۔

طرس. الکتاب: اچھی طرح مٹانا.....

الباب: دروازہ کالا کرنا..... الکاتب: لکھے ہوئے پر لکھنا۔ طرسہ: فاسد کر دینا۔ بگاڑ دینا۔

تطرس فی الماکل: عمدہ کھانے کھانا.....

عن الشی: پرہیز کرنا۔

الطرس: صحیفہ کہ جس کو مٹا کر پھر لکھا جائے۔ ج اطراس و طُرُوس۔

طرش (س) طَرَسًا: بہرا ہونا۔ صفت

أطرش مؤنث طَرَسًا: ج طرش۔

تَطَرَش: بھکت بہرا ہونا۔

الطرش والطرشة: بہرا پن۔

الأطرش والأطروش: بہرا۔

طرشَم. اللیل: تاریک ہونا۔

طرس (س) طَرَسًا: بے وقوف ہونا۔

صفت طرس: ابروؤں پر کم بال ہونا۔ صفت۔

طارط. الحاجین و طرطہما و أطرطہما و أطرط مؤنث طَرَطًا. امرأة طَرَطًا العینین: جس کی پلکوں پر کم بال ہوں۔

طرطو: شیخ بگھارنا۔ ڈنک مارنا۔ فخر کرنا۔

طَرْطُورٌ: لمبا پتلا مرد۔ لمبی نوکدار ٹوٹی اور
طَرْطُورٌ: اہل لبنان و شام کے نزدیک
عورتوں کے زیورات میں سے ایک زیور
ہے جس کو سر پر استعمال کیا جاتا ہے اور
بسا اوقات اسے طَنْطُورَةٌ بھی کہتے ہیں۔

طَرْفَةٌ: (ض) طَرْفًا: طمانچہ مارنا۔ طَرْفَهُ
عَنْهُ: واپس کرنا۔ باز رکھنا۔ طَرْفَ بَصْرَهُ أَوْ
بِعَيْنِهِ: چمکانا۔ عَيْنُهُ: آنکھ میں کوئی چیز لگانا
جس سے پانی نکلے اور بند ہو جائے۔ صفت
مَطْرُوفَةٌ: طَرْفَتْ عَيْنُهُ: نظر پھراننا..... فُلَانٌ
يُرَكِبُنَا: کہا جاتا ہے "منا بَقِيَتْ مِنْهُمْ عَيْنٌ
تَطْرُفُ" یعنی ان میں سے کوئی باقی نہیں رہا
سب مر گئے یا لٹ کئے گئے۔

طَرْفٌ: (ک) طَرْفَةٌ: نیامال ہونا۔
طَرْفُهُ: ایک گوشہ میں کرنا۔ آنکھ میں کچھ پڑ
جانا۔ طَرْفُ الخَيْلِ: گھوڑوں کی اگلی تظار کو
چیمچے کر دینا۔ بَنَانُهُ: پورے کو مہندی سے رنگنا
..... الشَّيْءُ: پسند کرنا۔

أَطْرَفٌ: نئی عمدہ چیز لانا۔ لپکوں کو بند کرنا۔
كَذَا بِكَذَا: لاحق کرنا..... هَ الشَّيْءُ: تجھ
دینا۔

تَطْرُفٌ: ایک کنارہ میں ہونا..... الشَّيْءُ:
کنارہ پر ہونا۔ حد اعتدال سے بڑھ جانا
..... الشَّمْسُ: آفتاب کا غروب کے قریب
ہونا..... الشَّيْءُ: اطراف سے لینا۔ پسند کرنا
..... عَلَيْهِمْ: غارت ڈالنا۔

إَطْرَفٌ: الشَّيْءُ: نئی چیز خریدنا۔
إِسْطَرْفَةٌ: نیا سمجھنا..... الشَّيْءُ: نیا پانا۔ فائدہ
لینا۔ پسند کرنا۔

الطَّرْفُ: آنکھ۔ کسی چیز کا کنارہ۔ ہر شے کا
منتہی۔ ج اطَّرَفَ: الطَّرْفُ: شریف۔ کہا
جاتا ہے "نظروا بطرف خفي" یعنی خوف یا
حیا کی وجہ سے نیم باز آنکھوں سے دیکھا۔

الطَّرْفُ: نجیب الطرفین۔ ج اطَّرَفَ:
اسیل (گھوڑا وغیرہ) ج طَرْوُوفٌ و اطَّرَافٌ:
مؤنث طَرْوُوفَةٌ: نیامال۔ من النبات: جو ابھی
اپنے خلاف شکوفہ میں ہی ہو..... من الناس:

جو بوجہ ملال طبع کسی کے ساتھ معاشرت پر
قائم نہ رہے۔ ایسا حریص نگاہ کا کہ جس چیز کو
دیکھے اس کے متعلق خواہش کرے کہ وہ اس
کے پاس ہو۔ رَجُلٌ طَرْفٌ فِي نَسَبِهِ: نئی
شرافت والا۔ امْرَأَةٌ طَرْفٌ الْحَدِيثُ:
خوش کلام عورت۔

الطَّرْفُ: ہر شے کا منتہی۔ گوشہ۔ چیز کا ٹکڑا۔
الطَّرْفُ: ج اطَّرَافٌ ج اطَّرَافٌ: شریف۔
الْبَدَنُ: دونوں ہاتھ دونوں پیر اور سر۔
أَطْرَافُ النَّاسِ: ادنیٰ قسم کے لوگ۔ شرفاء
اور خاندان شرفاء۔ اطَّرَافُ الرَّجُلِ:
اقرباء۔

الطَّرْفُ: غیر مستقل۔ جو کسی ساتھی کی صحبت پر
قائم نہ رہے۔ نئی شرافت والا۔

الطَّرْفَةُ: خون کا نقطہ جو آنکھ میں ہو جاتا
ہے۔

الطَّرْفَةُ: لہجہ بات۔ نئی عمدہ چیز۔ ج طَرْفُ:
الطَّرْفَاءُ: جمہور کا درخت۔

الطَّرَافُ: فا۔ نیامال اور اس کے مقابلہ میں
ہے۔ النَّالِدُ: پرانا مال۔

الطَّرَافَةُ: مؤنث طَّرَافٌ: کہا جاتا ہے "جاءَ
بِطَّرَافَةِ عَيْنِي" یعنی اتنا مال کثیر لایا کہ جو
دیکھے اس کی آنکھ کو چکا چونڈ لگ جائے ج
طَّرَافِ الطَّرَافِ: آنکھیں۔ کہا جاتا ہے
"لا تَرَاهُ الطَّرَافُ طَّرَافِ الجَبَاءِ" خیمہ
کا وہ حصہ جو باہر نظر ڈالنے کے لئے اٹھا دیا
جائے۔ طَّرَافِ القَرَاحِ: طبیعت کے
لطفائف و ظرائف۔

الطَّرِيفُ: نادرمیوہ..... من المال: نیا
حاصل کردہ مال اور اس کے مقابلہ میں ہے۔
التَّيِيدُ: پرانا مال۔ الطَّرِيفُ: نئے مال والا۔
نئی شرافت والا۔ ج طَّرِيفٌ و طَّرِيفٌ:
الطَّرِيفَةُ: طَّرِيفٌ: کا مؤنث۔ نادرو مستحسن

بات ج طَّرِيفٌ: کہا جاتا ہے "طَّرِيفٌ
الْحَدِيثُ" پسندیدہ باتیں۔ "هَلْ وَرَاءَ كَ
طَّرِيفَةٌ خَيْرٌ تَطْرُفُنَا" یعنی کوئی خبر جدید
ہے جو تم ہمارے سامنے پیش کرو۔

الأَطْرُوفَةُ: نئی عمدہ نادریات۔
الطَّرَافُ: چمڑے کا خیمہ۔ اتنا حصہ کھتی کا جو
اطراف سے کاٹ لیا جائے۔ ج طَّرَفٌ:
شرافت و بزرگی۔

المُطْرَفُ: من المال: نیامال حاصل کرنے
والا۔

الجَطْرَفُ و المَطْرَفُ: نقش و نگار والی ریشم
کی چادر ج مَطْرَافٌ.

طَرْفَسٌ: نظریتیز کرنا۔ گھورنا۔ بہت کڑے
پہننا..... السَّيْلُ: رات کا تاریک ہونا.....

المَوْزِدُ: گھاٹ کا گدلا ہونا..... السماءُ: پانی
پر آنے جانے والوں کا زیادہ ہونا۔

الطَّرِيفَانُ: تاریکی۔ چھوٹا۔ عالیچہ۔
الطَّرِيفَاءُ: تاریک۔

طَرْفَةٌ: (ن) طَرْفًا: ہتھوڑا مارنا..... النَّجَارُ:
الصُّوفُ: اُون و دھنا..... الشَّيْءُ: بجانا.....

البَابُ: دروازہ کھلکانا..... الإِبِلُ السماءُ:
اُونوں کا پانی میں گھسنا۔ السَّرَجُلُ: جا دو منتر
کے طور پر گنگری پھینکانا..... طَرْوُوفًا و طَرْوُوفًا
القَوْمُ: رات کے وقت آنا۔

طَّرِيقٌ: (س) طَرْفًا: گدلا پانی پینا.....
طَّرِيقٌ البَعِيرُ: اُونٹ کے گھسنے میں کمزوری یا
اس کی پنڈلی میں کمی ہونا۔ صفت اطَّرِيقٌ -
مؤنث طَّرِيقَةٌ ج طَّرِيقٌ.

طَّرِيقٌ لَهُ: راستہ بنانا..... التَّمْوِضُ: راستہ
اختیار کر لینا۔ کہا جاتا ہے "لا تَطْرُقُوا
المَسَاجِدَ" یعنی مسجدوں کو راستہ مت
بناؤ۔ "طَّرِيقٌ طَرِيفَةٌ حَسَنَةٌ" اچھا طریقہ گھر
لینا..... الخَدِيدُ: لوہے کو کوٹنا اور پھیلانا۔

طَّرِيقٌ التَّحَامِلُ: بولڈھا: بچے کو مشکل سے
جنا۔ القَطَاةُ: اڈے دینے کا وقت قریب
ہونا۔ کہا جاتا ہے "طَّرِيقٌ بِحَقِيصِي" یعنی
میرے حق کا انکار کیا پھر اقرار کر لیا۔

طَّرِيقٌ: بَيْنَ السُّوْبَيْنِ: اُوپر نیچے پہننا۔
الظَّلَامُ او الغَمَامُ: تاریکی یا بادل کا پیاپے
آنا۔

أَطْرُقٌ: خاموش ہونا۔ نگاہ جھکا کر زمین کی

طرف دیکھنا۔ کہا جاتا ہے "أَطْرَقَ رَأْسَهُ"
یعنی سر جھکانا..... اِلَى السُّهُو: نائل ہونا.....
الصَّيْدَةَ: جال لگانا..... أَطْرَقَتِ الْإِبِلُ: ایک
دوسرے کے پیچھے چلنا۔ السَّرْجُلُ: بیدل
چلنا۔ نَاجَحَ: کرنا۔
تَطْرَقَ: إِلَيْهِ: چلنا یہاں تک کہ پہنچنا۔ اِلَى
الْأَمْرِ: راستہ تلاش کرنا۔
إِطْرَقَتِ: الْإِبِلُ: بعض کا بعض کے پیچھے
چلنا۔ متفرق ہونا اور سیدھے راستہ کو چھوڑ
دینا۔ أَطْرَقَ جَسَّاحُ الطَّيْرِ: پرندے کے
بازوؤں کا ایک پر ایک جم جانا..... التُّرَابُ:
مٹی کا تہہ ہونا۔
تَطَارَقَتِ الشُّيْ: بے درپے ہونا۔ تَطَارَقَتِ
الْإِبِلُ: بعض کا بعض کے پیچھے ہونا۔
إِسْطَرَقَ: الشُّيْ: راستہ بنانا..... بَيْنَ
الصُّفُوفِ: صفوں کے درمیان چلنا..... ه:
کنکری پھینکنے کو کہنا۔
الطَّرِيقُ وَالطَّرِيقُ وَالطَّرِيقَةُ: مرتبہ و دفعہ کہا
جاتا ہے "اتَّيَسَّرَ طَرِيقَيْنِ" یعنی میں اس کے
پاس دو مرتبہ آیا۔
الطَّرِيقُ وَالطَّرِيقُ: پھندا۔ جال۔ ج۔
أَطْرَاقُ:
الطَّرِيقَةُ: پھندا۔ جال۔ ج۔ طَرِيقُ:
الطَّرِيقُ: مشک کی سلوٹ۔ ج۔ أَطْرَاقُ: پانی
جمع ہونے کے مواضع۔ اونٹوں کے پیر کے
نشانات۔ أَطْرَاقُ الْبَطْنِ: پیٹ کی سلوٹ۔
الطَّرِيقَةُ: طَرِيقُ: کاسم نوع۔ طریقہ۔ ج۔
طَرِيقُ:
الطَّرِيقَةُ: راستہ۔ طریقہ۔ عادت۔ لالچ۔ تہ۔
بتہ پتھر ج۔ طَرِيقُ:
الطَّرِيقُ: جوتے کا چمرا۔ لوہا کہ جس کو چوڑا
کر کے ڈھال وغیرہ پر منڈھیں۔ جوتے
کے چمراے کا ٹکڑا جس سے جوتا کاٹھیں۔ ج۔
طَرِيقُ:
الطَّرِيقُ: راستہ (مذکورہ نمونہ) ج۔ طَرِيقُ
أَطْرُقُ وَأَطْرُقَةُ وَأَطْرُقَاءُ وَجِجَ طَرِيقَاتُ
الطَّرِيقَةُ: عادت۔ حالت۔ مذہب

دھاری۔ کپڑے کا مستطیل ٹکڑا۔ لہا کھجور کا
درخت۔ خیمے کا ستون۔ سائبان کا ستون۔
توم کا شریف اور انضال۔ واحد اور جمع دونوں
میں مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے "هُوَ طَرِيقَةُ
قَوْمِهِ وَهُمْ طَرِيقَةُ قَوْمِهِمْ. يَا وَهُمْ طَرِيقُ
قَوْمِهِمْ جِ طَرِيقُ. قُوبَ طَرِيقُ: پرانا کپڑا
طَرِيقُ الذَّهْرُ: حواشی دہر۔
الطَّرِيقُ: فا۔ رات کو آنے والا۔ ج۔ طَرِيقُ
وَأَطْرَاقُ: صبح کا ستارہ۔
الطَّرِيقَةُ: طَارِقُ: کامونٹ۔ مصیبت۔ قبیلہ
مرد۔ چھوٹا تخت۔ ج۔ طَوَارِقُ وَطَارِقَاتُ:
الطَّرِيقُ: مَوْنُطُ طَرِيقَةُ: المِطْرَاقُ جِ
مَطَارِيقُ: بہت سر جھکانے والا۔
المِطْرَاقُ وَالْمِطْرَاقَةُ: روٹی اُون دُھننے کا
ڈنڈا۔ تھوڑا۔ ج۔ مَطَارِقُ:
المِطْرَاقُ: مِطْعَ: وہ شخص جس میں نرمی اور
ڈھیلا پن ہو۔ وہ شخص جس میں جنون اور بے
وقوفی ہو۔ مَاءَ مِطْرَاقُ: وہ پانی جس میں
اُونٹ بٹنی و پیشاب کریں۔
المِطْرَاقُ: نَطِيرُ: ج۔ مَطَارِيقُ: المِطْرَاقُ:
پیدل چلنے والے لوگ۔ اونٹوں کی قطار۔
طَرِيمُ (س) طَرِيمًا: بَيْتُ النَّخْلِ: شہد سے
بھرتا (..... طَرِيمًا) العَسَلُ: چھتے سے شہد
بہتا۔
أَطْرِمْتُ: أَسْنَانُهُ: دانتوں پر میل جانا۔
أَطْرِمُ قُوهُ: منہ کا بدمزہ یا بدبودار ہونا۔
تَطْرِمُ فِي الْكَلَامِ: کلام کرنے میں زک
جانا۔
الطَّرِيمُ وَالطَّرِيمُ وَالطَّرِيمُ: شہد۔ الطَّرِيمُ: تہ۔
بتہ بادل۔ رَجُلٌ طَرِيمٌ: مرد دراز قد۔
الطَّرِيمَةُ: جگر۔
الطَّرِيمَةُ وَالطَّرِيمَةُ وَالطَّرِيمَةُ: اوپر کے
ہونٹ کا ٹکڑا۔
الطَّرِيمَةُ: دانتوں کی زردی۔ دانتوں کے
درمیان کا بقیہ کھانا۔ منہ کے اوپر خشک
تھوک۔ الطَّرِيمُ: غصہ۔
الطَّرِيمُوتُ: بھوبل کی پکی ہوئی روٹی۔

طَرْمُحُ: الْبِنَاءُ: لمبی بنانا۔
الطَّرْمَاحُ وَالطَّرْمَاحُ وَالطَّرْمُوحُ: لمبا۔
الطَّرْمَاحُ: مشہور۔ عالی نسب۔ پیش میں۔
طَرْمَذُ: بے کار ڈیک مارنا۔ جھوٹا نخر کرنا۔
صفت طَرْمَازُ وَطَرْمَازَانُ:
طَرْمَسُ: گھبراہٹ سے خاموش رہنا۔ مکروہ
جاننا۔ بھگانا..... السُّوْجُ: ترش رو ہونا.....
الْكَاتِبُ الْكِتَابَةَ: مٹانا (..... واطْرَمَسَ)
الذَّلِيلُ: تاریک ہونا۔
الطَّرْمَاسُ وَالطَّرْمِيسُ وَالطَّرْمِيسَاءُ: سخت
تاریکی۔
الطَّرْمُوسُ وَالطَّرْمُوسَةُ: بھوبل کی پکی
ہوئی روٹی۔
الطَّرْمُوقُ: چمگاڈ۔
طَرَوُ يَطْرُو وَطَرِي يَطْرِي طَرَاوَةٌ وَطَرَاءَةٌ
وَطَرَاوَةٌ وَطَرَاءُ: الْغَضُنُ وَاللَّحْمُ: ٹہنی یا
گوشت کا تازہ وزم ہونا۔ صفت طَرِيٌّ:
طَرَا يَطْرُو طَرُوًا: عَلَيْهِمْ: دُور سے آنا۔
طَرِيٌّ: الشُّيْ: تروتازہ کرنا..... الطَّيِّبُ:
خوشبوؤں کو مخلوط کرنا..... الطَّعَامُ: کھانے
میں سال ملانا۔
أَطْرَسِيْ إِطْرَاءُ فَلَاتَا: تعریف میں مبالغہ
کرنا۔
إَطْرُوِيْ: تجمہ ہونا اور پیٹ پھولنا۔
الطَّرَا: جو کچھ زمین میں غیر جنس زمین سے
ہو۔ لا تعداد مخلوق۔
الطَّرِي: نرم تازہ۔
الْإِطْرِيَّةُ: سویاں۔
الْأَطْرُوَانُ مِنَ الشَّبَابِ: ابتدائے شباب۔
عفتوان شباب۔
طَرِيٌّ: (س) طَرِيٌّ: إِلَيْهِ: متوجہ ہونا۔
طَرَزَةٌ: (ن) طَرَزًا: گھونٹ مار کے بنانا۔
طَسَّةُ: (ن) طَسًا: غالب آنا اور خاموش
کرنا..... ه فِي الْمَاءِ: غوطہ دینا۔ طَسَّ
الْقَوْمُ: سیر میں دور تک چلا جانا۔ کہا جاتا ہے
"مَا أَذْرَى أَيْنَ طَسَّ" میں نہیں جانتا کہاں
گیا۔

طَسَسَ: جانا..... فِي الْبِلَادِ: سفر کرنا۔
 الطَّسُّ: ہاتھ دھونے کے لئے تانبے کا برتن۔ سِلْبِيّ: حِجْ طَسَّاسٌ وَطَسُّوسٌ وَطَيْبِسٌ۔
 الطَّشَّةُ وَالطَّشَّةُ: ہاتھ دھونے کے لئے تانبے کا برتن۔ سِلْبِيّ: حِجْ طَشَّاتٌ وَطَشَّاتٌ وَطَسَّاسٌ: برتن مذکور کو بنانے والا۔ یا بیچنے والا۔
 الطَّسَانَةُ: برتن مذکور بنانے کا پیشہ۔
 طَسًا: (ف) طَسًا وَطَيْبِيّ: (س) طَسًا: تجرہ ہونا۔ مَفْتٌ طَيَّابِيّ طَيْبِيّ: طَسَّابِيَّةٌ: شرم کرنا۔
 أَطْسَاءٌ: بد چھی کرنا۔
 الطُّسَاءُ: تجرہ۔ ہیضہ۔
 الطُّسَّتُ: ہاتھ دھونے کا تانبے کا برتن۔ حِجْ طُسُوتٌ۔
 طَسَعَ: (ف) طَسَعًا فِي الْبِلَادِ: جانا۔
 طَيْعٌ: (س) طَسَعًا: بے غیرت اور مفلس ہونا۔ صَفَتْ طَيْعٌ وَطَيْبِعٌ۔
 طَسَمَ: (ن) طَسَمًا: الشَّيْءُ: مٹانا۔
 طَسَمَ: (ش) طَسُومًا: مٹنا۔
 طَبِيمَ: (س) طَسَمًا: ہیضہ ہونا۔ تجرہ ہونا۔
 الطَّسَمَ: تاریکی۔ تیرگی۔ گرد آلودگی۔
 طَسَمَ أَوْ أَطْسَمَ مِنْ سَحَابٍ: تھوڑے سے بادل۔
 الطَّسَامُ وَالطُّسَامُ وَالطَّسَامُ: مِنَ الْغَبَارِ: بہت زیادہ غبار۔
 طَشَّتْ: (ن ش) طَشًّا وَأَطَشَّتْ: السَّمَاءُ: چھو ہار برستا۔
 طَشَّ الرَّجُلُ: زکام جیسی بیماری لاحق ہونا۔
 الطُّشَّاشُ وَالطُّشَّةُ: زکام جیسی ایک بیماری کا نام۔
 الطُّشَّاشُ: کزوری نگاہ۔
 الطُّشَّةُ: چھوٹا بچہ۔

طَعِمَ: (ش) طَعَمًا وَطُعَمًا: الشَّيْءُ: چکھنا..... عَلَيْهِ: قادر ہونا۔
 طَعِيمٌ: (س) طَعَمًا وَطُعَمًا الطَّعَامَ: کھانا..... طَعَمًا: الغَضْنَ: ایک درخت کی ٹہنی کا دوسرے درخت کی ٹہنی میں گھس جانا۔
 طَعَمَ: (ف) طَعَمًا: آسودہ ہونا۔ کہا جاتا ہے "مَا يَطْعَمُ أَكْبَلُ هَذَا" یعنی اس کا کھانے والا آسودہ نہیں ہوتا۔
 طَعَمَ الغَضْنَ: ٹہنی کو دوسرے درخت کی ٹہنی سے پیوند لگانا اور عرف الطَّيِّبِ وَغَوَامٍ میں ٹیکہ لگانے کے معنی میں مستعمل ہے۔ "طَعَمَ العَظْمَ": گوڈے دار ہونا۔
 أَطْعَمَ الغَضْنَ: پیوند لگانا..... ف: کھانا کھلانا۔
 خوراک دینا..... الشَّجَرُ: پھل دینا۔ پھل پکنا..... الشَّيْءُ: مزے دار ہونا یا مزے کا بدل جانا۔
 طَاعَمٌ وَطَاعِمٌ: الحَمَامُ: مادہ کی چونچ میں چونچ ڈالنا۔ طَاعِمَةٌ: ساتھ کھانا۔
 تَطَعَمَ: الشَّيْءُ: چکھنا۔
 إِطْعَمَ: مزیدار ہونا۔ إِطْعَمَتِ الشَّجَرَةُ: پھل کا پکنا اور عمدہ ہونا۔ عرب بولتے ہیں "هُوَ لَا يَطْعِمُ" یعنی نہ تو وہ ادب کی کتاب ہے اور نہ ایسی چیز حاصل کرتا ہے جو اسے درست کر دے۔
 اسْتَطْعَمَ: مزہ پانا..... ہ: کھانا مانگنا..... الطَّعَامَ: مزہ معلوم کرنے کے لئے چکھنا۔ کہا جاتا ہے "اسْتَطْعَمَهُ الخَدِيبُ" یعنی اس نے بات کہنے کے لئے کہا۔
 الطَّعِمَ: مزہ۔ حِجْ طَعُومٌ: کھانے کی خواہش۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ ذُو طَعِمٍ" یعنی صاحب عقل و تجربہ ہے۔
 الطَّعِمَ: کھانا۔ قدرت۔ کہا جاتا ہے "هَذَا طَعَامٌ طَعِمٌ" یعنی ایک شخص کو میر کرنے والا ہے۔ دانے جو دکار کے لئے ڈالے جائیں۔
 الطَّعْمَةُ: کھانے کا طریقہ۔ کب و کمانی کا ذریعہ۔
 الطَّطِيمُ: ایک گوشہ یا ٹہنی دوسری ٹہنی میں

لگانا۔ (پیوند کاری کرنا)۔ (شوک پھرنگ) الطَّعْمَةُ: خوراک۔ کھانے کی دعوت۔
 رزق۔ کب و کمانی کا ذریعہ۔ کہا جاتا ہے "جَعَلْتُ ضَيْعَتِي طَعْمَةً لِغُلَّانٍ" یعنی میں نے فلاں کو اپنی جائیداد زراعت کے لئے عاریت پر دے دی حِجْ طَعِمٌ۔
 الطَّعَامُ: خوراک حِجْ الطَّعْمَةُ حِجْ اطْعِمَاتٌ: گیہوں۔
 الطَّعِيمُ وَالطَّاعِمُ: خوش خوراک۔ کہا جاتا ہے "أَنَا طَاعِمٌ عَنْ طَعَامِكُمْ" یعنی میں تمہارے کھانے سے مستغنی ہوں۔
 حِجْ طَعِيمٌ وَطَعِيمٌ: ذبح کرنے کے اؤٹ نہ دینے نہ منولے۔ الطَّعُومَةُ: بکری جو کھانے کے لئے روک لی گئی ہو۔
 الطَّعَامِيّ: کھانا بیچنے والا۔
 المَطْعَمُ: کھانے کی جگہ۔ خوراک۔ حِجْ مَطَاعِمٌ۔
 المِطْعَمُ: زیادہ کھانے والا۔
 المَطْعَامُ: مہمان نواز۔
 المَطْعَمُ: مفتح۔ رزق دیا ہوا۔
 المَطْعُومُ: مفتح۔ خوراک۔ جو چکھا جائے۔ پیوند۔ ٹیکہ۔
 طَعَنَهُ: (ف ن) طَعَنًا: نیزہ مارنا اور چھوٹا..... فِي المَفَاذِ: جانا..... فِي السِّنِّ: بوڑھا ہونا..... الفَرَسُ فِي العَنَانِ: نگام سنبھل کر تیز چلنا..... طَعَنًا وَطَعَنَانًا: فِي الرَّجُلِ وَعَلَيْهِ: عیب لگانا۔ طَعَنَهُ: مارنا..... اللَّيْلُ: ساری رات چلنا۔
 طَعِنَ: الرَّجُلُ: طاعون زدہ ہونا۔
 تَطَاعَنَ: القَوْمُ تَطَاعَنًا وَطِعَانًا وَاطْعَنُوا: ایک دوسرے کو تیزہ مارنا۔
 الطَّعْنَةُ: نیزے کی ضرب۔ نیزے کی ضرب کا نشان۔ حِجْ طَعْنٌ وَطَعْنَاتٌ۔
 الطَّاعُونُ: پلگ۔ وبا کی موت۔ حِجْ طَوَاعِينٌ۔
 الطَّعْنُ وَالطَّعْنُ وَالطَّعْنُ: بہت تیزہ مارنے والا۔ حِجْ مَطَاعِنٌ وَمَطَاعِينٌ اور اسی

سے ہے "هُوَ طَعْنَانٌ فِيْ أَعْرَاضِ النَّاسِ" یعنی وہ لوگوں کی آبرو پر بہت زیادہ طعن کرنے والا ہے۔

الطَّعِنُ: نیزہ زدہ۔ پلگ زدہ۔ ج طَعْنٌ۔
الطَّعِنُ: جنگ میں نیزہ مارنے میں ماہر۔
المَطْعَنَةُ: نیزہ بازی۔

طَعْنَةٌ: (ف) طَعْنًا: دفع کرنا۔ ہٹانا۔
الطَّعْرَاءُ وَالطَّعْرِيُّ: شاہی فرامین اور سکون کی علامت۔ ج طَعْرَاءَاتُ وَطَعْرِيَّاتُ۔
الطَّعْرَانِي: طعرا بنانے والا۔

تَطَعَّمَ: عَلَيْهِ: جاہل بنا۔
طَعْمَةٌ: جماعت جن کا معاملہ ایک ہو۔ ج طَعْمَاتُ وَطَعْمٌ۔
الطَّعْمُ: سندر۔ بہت پانی۔

الطَّعْمَامُ: کینے لوگ (واحد جمع) معمولی پرندے۔ واحد طَعْمَامَةٌ۔ الطَّعْمَامَةُ: بے وقوف۔

الطَّغْوْمَةُ وَالطَّغْوْمِيَّةُ: بے وقوفی۔ کینے پرنے۔
طَغْمَشُ الرَّجُلِ: کمزور نظر ہونا۔
إِلَيْهِ: کمزور نظر سے دیکھنا۔ صفت مُطْغِمِشٌ۔

الطَّغْمَشَةُ: ضحک بصر۔
طَغَا يَطْغُو طَغْوًا وَطَغْوَانًا: حد سے بڑھ جانا۔ البَحْرُ: سندر کا جوش مارنا۔

السَّيْلُ: سیلاب کا چڑھ آنا۔
تَطَاعَى: المَوْجُ: موجوں کا جوش مارنا۔
أَطْعَاهُ وَطَعَاهُ: سرکشی پر براہیختہ کرنا۔

أَطْعَاهُ الْمَالَ وَنَحْوَهُ: سرکش بنا دینا۔
الطَّغْوَةُ: بلند جگہ۔ ج طَعْوَاتُ۔
الطَّغْوِيُّ: سرکشی۔

الطَّاعُوْتُ: ہر حد سے تجاوز کرنے والا۔
بدی و شرارت کا سرغنہ۔ شیطان۔ مجبور باطل۔ ج طَوَاعٍ وَطَوَاعِيَّتٌ۔ الطَّوَاعِيُّ وَالطَّوَاعِيَّةُ: بہت خانے۔

طَغْنِي وَطَغْنِي يَطْغِي طَغْيًا وَطَغْيَانًا وَطَغْيَانًا: بھمنے طغنا: وادی..... الکافِرُ: کفر میں غلو کرنا..... السَّرْجُلُ: ظلم اور گناہوں میں حد سے

بڑھ جانا..... الماءُ: بلند ہونا۔

طَغْنِي وَطَغْنِي: فَلَانًا: سرکشی پر براہیختہ کرنا۔
سرکش بنانا۔

الطَّغْيَةُ: اسم مرءة۔ سرکش گھوڑا وغیرہ۔ پہاڑ کی چوٹی۔ ہر بلند جگہ۔

الطَّاعِي: قا۔ ظالم۔ طَعَاةٌ. طَاعُوْنَ۔
الطَّاعِيَّةُ: مَوْتٌ طَاعِي: جبار۔ متکبر۔

سرکش۔ بے وقوف۔ بجلی۔ رومی بادشاہوں کا لقب اور بسا اوقات عرب رومی بادشاہوں کے علاوہ دوسروں پر اطلاق کرتے تھے۔

طَفَّ: (ن ش) طَفًّا الشَّيْءُ مِنْهُ: قریب ہونا..... المَحَابِطُ: دیوار پر چڑھنا۔ طَفَّهُ بِرَجُلِهِ اَوْ يَدِهِ: ہیر سے ہاتھ سے اٹھانا۔

طَفَّفَ: المِكْيَالُ: کم ناپنا..... الطَّائِرُ: پرندہ کا باز و پھیلا نا..... عَلِي عِيَالِهِ: بال بچوں پر نکل کرنا۔ طَفَّفَتِ الشَّمْسُ: آفتاب کا غروب کے قریب ہونا..... بِهِ مَوْضِعٌ كَذَا: قریب کرنا۔

أَطَفَّ عَلَيْهِ: جھانکنا..... الكَيْلُ: بھرننا..... لَهُ: قریب دینے کا ارادہ کرنا..... عَلَيْهِ: مشتمل ہونا..... عَلَيْهِ بِمَحْمُورٍ: بھینکنے کے لئے اٹھانا..... لَهُ السَّيْفُ: تلوار کو جھکانا۔

اسْتَطَفَّ عَلَيْهِ: جھانکنا۔ اسْتَطَفَّتِ: الحاجةُ: حاجت کا پورا ہونا۔
الطَّفُّ: بلند زمین۔ کنارہ۔ جانب۔ صحن۔ مکان۔ پہاڑ کا پہلو۔ ج طَفُوفٌ. (.....)

والطَّفِيفُ وَالطَّفَافُ وَالطَّفَافُ وَالطَّفَافَةُ: مِنَ الْإِنْسَاءِ: برتن کا کنارہ۔ کنارے تک بھرا ہوا۔ الطَّفَافُ وَالطَّفَافُ: رات کی تاریکی۔ طَفَّافُ الشَّمْسِ: آفتاب کا ڈوبنے کے قریب ہونا۔ کہا جاتا ہے "آتَانَا عِنْدَ طَفَافِ الشَّمْسِ" غروب آفتاب کے قریب ہمارے پاس آیا۔

الطَّفِيفُ: کم۔ نامکمل۔ حقیر خیس۔
الطَّفَافَةُ: پارے کا گردا گرد۔ قطعہ زمین جو پہاڑوں اور میدان کے درمیان ہو۔
الطَّفُّ وَالطَّفَافُ: مِنَ الْخَيْلِ: ہلکا پھلکا تیز

رقتار گھوڑا۔
إِنَاءٌ طَفَّانٌ: لباب برتن۔
طَفِفْتُ: (س) طَفْفُوْهُ. النَّارُ: آگ کا بجھنا..... عَيْنُهُ: آنکھ کا بے نور ہونا۔
أَطْفَأُ: النَّارُ: آگ کا بجھانا۔ کہا جاتا ہے "أَطْفَأَ الْفِتْنَةَ أَوْ الْحَرْبَ" یعنی فتنہ یا لڑائی کا فرو کر دیا۔
إِنطَفَأَتْ إِنطَفَاءً. النَّارُ: آگ کا بجھنا۔
الْمُطْفِئِيُّ: قا۔ مُطْفِئِي الْخَمْرِ: ایام بخور کا چوتھا یا پانچواں دن۔ مُطْفِئِي الرِّضْفِ: مصیبت۔ مُطْفِئَةُ الرِّضْفِ: چربی کی جو گرم پتھر پر پڑے تو پکھل جائے اور اس کی گرمی کو دور کر دے۔

المُطْفِئَةُ: آگ بجھانے کا آلہ۔ ج مُطْفِئِي.
طَفَّحَ: (ف) طَفَّحًا وَطَفَّوْحًا الْإِنَاءُ: بھر جانا اور بہہ پڑنا..... الْإِنَاءُ: بھروینا (لازم و متعدی)..... السُّكْرَانُ: شراب سے پڑ ہونا..... السُّرَاةُ بِالْوَلَدِ: پودے دونوں پر بچہ جینا اور کہا جاتا ہے "أَطْفَحَ غَنِيٌّ" یعنی جاؤ۔
طَفَّحَ وَأَطْفَحَ الْإِنَاءُ: بھرنایا یہاں تک کہ بہہ پڑے۔
أَطْفَحَ: البَقْدُرُ: جھاگ نکالنا۔
الطَّفَاحُ: ہڈی۔
الطَّفَاحَةُ: ہانڈی کے جھاگ۔
الطَّفْحَانُ: لبریز جو بہہ پڑے۔ مَوْتٌ طَفْحِي.

الطَّفَاحَةُ: مَوْتٌ طَفَّاحٌ: خشک۔
فَرَسٌ طَفَّاحٌ: القَوَائِمُ: بہت تیز دوڑنے والا گھوڑا۔
المُطْفِحَةُ: تکلیف۔
طَفَّذَ: (ض) طَفَّذًا. المَيْتَ: دفن کرنا۔
الطَّفْذُ وَالطَّفْذُ: قبر۔ ج أَطْفَاذُ۔
طَفَّرَ: (ض) طَفَّرًا وَطَفَّرُوْا: کودنا۔
اَوْ نِحْيَانِي مِثْلُ كُودَانَا۔
طَفَّرَ: اللَّيْنُ: بالائی والا ہونا..... (واظفر) الفَرَسُ النُّهْرُ: گھوڑے کو نہر کے ایک جانب

سے دوسری جانب کدوانا۔

الطَّفُورَةُ: اونچائی کی کدوائی..... مِنَ اللَّبَنِ: بالائی۔

طَفَسَ: (س) طَفَسًا وَطَفَاسَةً: گندرا ہونا۔ صفت طَفَسٌ۔

طَفَسَ: (ن) صَفُوسًا الرَّجُلُ: مرنا۔ طَفَطَفَ طَفَطَفَةً: دشمن کے ہاتھوں میں ڈھیلا ہونا۔

الطَّفِطْفَةَ وَالطَّفِطْفَةَ: کمر۔ ڈھیلا گوشت۔ جِ طَفَاطِفَ۔

الطَّفِطَافُ: جانب۔ دریا کا کنارہ۔ درخت کی ترو تازہ نرم شاخیں۔

طَفِقَ: (س) وَطَفَقَ (ض) طَفَقًا وَطَفُوقًا: يَفْعَلُ كَذَا: شروع کرنا۔ طَفِيقَ الْمَوْضِعِ: لازم ہونا۔ طَفِيقَ بِمُرَادِهِ: کامیاب ہونا۔

أَطْفَقَهُ بِمُرَادِهِ: کامیاب کرانا۔

طَفُلٌ: (ك) طُفُولَةٌ وَطَفَالَةٌ: نرم و ناز پروردہ ہونا۔

طَفُلٌ: (ن) طُفُولًا: رات کے وقت داخل ہونا۔ طَفَلَتِ الشَّمْسُ: آفتاب کا غروب کے قریب ہونا۔

طَفِلٌ (س) طَفَلًا وَطَفِلَ النَّبَاتُ: نباتات کا مٹی لگ جانے سے طویل نہ ہونا۔

طَفِلَ اللَّيْلُ: قریب ہونا۔ طَفَلَتِ الشَّمْسُ: آفتاب کا ڈوبنے کے قریب ہونا۔

الرَّجُلُ طَفِيلٌ: طویل ہونا..... الكَلَامُ غَمُورٌ كَرْنَا: طَفِيلَةٌ: نرمی برتنا اور یہ طَفِيلُ الرَّاعِيِ الْإِبِلِ سے ماخوذ ہے جبکہ چرواہا چلنے میں اونٹوں سے نرمی کرے تاکہ اونٹ کے بچے بھی ساتھ ہو جائیں۔

أَطْفَلٌ: رات کے وقت داخل ہونا۔

أَطْفَلَتِ الشَّمْسُ: آفتاب کا غروب کے وقت سرخ ہونا..... الْإِنثَى: بچہ والی ہونا۔

أَطْفَلُ الْكَلَامِ: بوجہنا۔

تَطَفَّلَ: بچوں کی سی عادت اختیار کرنا۔ طَفِيلٌ ہونا۔

الطِّفْلُ: نرم و نازک۔ جِ طِفْطَالٌ وَطُفُولٌ: مَوْثٌ طَفْلَةٌ۔

الطِّفْلُ: ہر چیز کا چھوٹا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ يَسْعَى لِي فِي إِطْفَالِ الْحَاجَاتِ" یعنی وہ میری چھوٹی چھوٹی حاجتوں میں کوشش کرتا ہے۔

ہر وحشی جانور کا بچہ۔ مَوْثٌ طِفْلَةٌ کہا جاتا ہے جارِئَةٌ طِفْلٌ وَطِفْلَةٌ: واحد و جمع دونوں کے لئے استعمال ہے اس لئے کہ اسم نر ہے۔ الطِّفْلُ: حاجت رات۔

آفتاب جو قریب غروب ہو۔ چنگاری۔ کہا جاتا ہے "تَطَايَرَتْ أَطْفَالُ النَّارِ" یعنی چنگاری اُڑی۔ رِيحٌ طِفْلٌ: نرم نرم چلنے والی ہوا۔ جِ أَطْفَالٌ۔

الطِّفْلُ: بچپن کی حالت۔ تاریکی۔ طَفْلٌ الطِّفْلُ: طَلُوعُ آفَتَابِ كَيْفَ كَچھ بعد۔ طَفْلٌ الْعِشِيِّ: غروب آفتاب سے کچھ قبل۔

الطِّفْلِيُّ مِنَ النَّبَاتِ وَالْحَيَوَانَ: دوسروں کے سہارے زندگی گزارنے والے۔ جانور درخت و پودے۔

الطِّفْلِيُّ مِنَ النَّبَاتِ وَالْحَيَوَانَ: دوسروں کے سہارے زندگی گزارنے والے۔ جانور درخت و پودے۔

الطِّفْلِيُّ مِنَ النَّبَاتِ وَالْحَيَوَانَ: دوسروں کے سہارے زندگی گزارنے والے۔ جانور درخت و پودے۔

الطِّفْلِيُّ مِنَ النَّبَاتِ وَالْحَيَوَانَ: دوسروں کے سہارے زندگی گزارنے والے۔ جانور درخت و پودے۔

الطِّفْلِيُّ مِنَ النَّبَاتِ وَالْحَيَوَانَ: دوسروں کے سہارے زندگی گزارنے والے۔ جانور درخت و پودے۔

الطِّفْلِيُّ مِنَ النَّبَاتِ وَالْحَيَوَانَ: دوسروں کے سہارے زندگی گزارنے والے۔ جانور درخت و پودے۔

الطِّفْلِيُّ مِنَ النَّبَاتِ وَالْحَيَوَانَ: دوسروں کے سہارے زندگی گزارنے والے۔ جانور درخت و پودے۔

الطِّفْلِيُّ مِنَ النَّبَاتِ وَالْحَيَوَانَ: دوسروں کے سہارے زندگی گزارنے والے۔ جانور درخت و پودے۔

الطِّفْلِيُّ مِنَ النَّبَاتِ وَالْحَيَوَانَ: دوسروں کے سہارے زندگی گزارنے والے۔ جانور درخت و پودے۔

الطِّفْلِيُّ مِنَ النَّبَاتِ وَالْحَيَوَانَ: دوسروں کے سہارے زندگی گزارنے والے۔ جانور درخت و پودے۔

الطِّفْلِيُّ مِنَ النَّبَاتِ وَالْحَيَوَانَ: دوسروں کے سہارے زندگی گزارنے والے۔ جانور درخت و پودے۔

الطِّفْلِيُّ مِنَ النَّبَاتِ وَالْحَيَوَانَ: دوسروں کے سہارے زندگی گزارنے والے۔ جانور درخت و پودے۔

الطِّفْلِيُّ مِنَ النَّبَاتِ وَالْحَيَوَانَ: دوسروں کے سہارے زندگی گزارنے والے۔ جانور درخت و پودے۔

الطِّفَافِي: جو پھل کی پانی میں مرجائے اور اُپر آ جائے..... الطِّفْطِي: ہرن کا تیز دوڑنا..... فُوقُ الْفَرَسِ: گود کر گھوڑے پر بیٹھنا..... فِي الْأَرْضِ: داخل ہونا..... فَلَانٌ: مرنا۔

الطِّفَافِي: ہانڈی کا جھاگ۔ کہا جاتا ہے "أَصْبَنًا طَفَاوَةً مِنَ الرَّبِيعِ" یعنی کچھ تھوڑا سا حصہ ملا۔ آفتاب یا ماہتاب کا ہالہ۔

الطِّفَافِي: ہانڈی کا جھاگ۔ کہا جاتا ہے "أَصْبَنًا طَفَاوَةً مِنَ الرَّبِيعِ" یعنی کچھ تھوڑا سا حصہ ملا۔ آفتاب یا ماہتاب کا ہالہ۔

الطِّفَافِي: ہانڈی کا جھاگ۔ کہا جاتا ہے "أَصْبَنًا طَفَاوَةً مِنَ الرَّبِيعِ" یعنی کچھ تھوڑا سا حصہ ملا۔ آفتاب یا ماہتاب کا ہالہ۔

الطِّفَافِي: ہانڈی کا جھاگ۔ کہا جاتا ہے "أَصْبَنًا طَفَاوَةً مِنَ الرَّبِيعِ" یعنی کچھ تھوڑا سا حصہ ملا۔ آفتاب یا ماہتاب کا ہالہ۔

الطِّفَافِي: ہانڈی کا جھاگ۔ کہا جاتا ہے "أَصْبَنًا طَفَاوَةً مِنَ الرَّبِيعِ" یعنی کچھ تھوڑا سا حصہ ملا۔ آفتاب یا ماہتاب کا ہالہ۔

الطِّفَافِي: ہانڈی کا جھاگ۔ کہا جاتا ہے "أَصْبَنًا طَفَاوَةً مِنَ الرَّبِيعِ" یعنی کچھ تھوڑا سا حصہ ملا۔ آفتاب یا ماہتاب کا ہالہ۔

الطِّفَافِي: ہانڈی کا جھاگ۔ کہا جاتا ہے "أَصْبَنًا طَفَاوَةً مِنَ الرَّبِيعِ" یعنی کچھ تھوڑا سا حصہ ملا۔ آفتاب یا ماہتاب کا ہالہ۔

الطِّفَافِي: ہانڈی کا جھاگ۔ کہا جاتا ہے "أَصْبَنًا طَفَاوَةً مِنَ الرَّبِيعِ" یعنی کچھ تھوڑا سا حصہ ملا۔ آفتاب یا ماہتاب کا ہالہ۔

الطِّفَافِي: ہانڈی کا جھاگ۔ کہا جاتا ہے "أَصْبَنًا طَفَاوَةً مِنَ الرَّبِيعِ" یعنی کچھ تھوڑا سا حصہ ملا۔ آفتاب یا ماہتاب کا ہالہ۔

الطِّفَافِي: ہانڈی کا جھاگ۔ کہا جاتا ہے "أَصْبَنًا طَفَاوَةً مِنَ الرَّبِيعِ" یعنی کچھ تھوڑا سا حصہ ملا۔ آفتاب یا ماہتاب کا ہالہ۔

الطِّفَافِي: ہانڈی کا جھاگ۔ کہا جاتا ہے "أَصْبَنًا طَفَاوَةً مِنَ الرَّبِيعِ" یعنی کچھ تھوڑا سا حصہ ملا۔ آفتاب یا ماہتاب کا ہالہ۔

الطِّفَافِي: ہانڈی کا جھاگ۔ کہا جاتا ہے "أَصْبَنًا طَفَاوَةً مِنَ الرَّبِيعِ" یعنی کچھ تھوڑا سا حصہ ملا۔ آفتاب یا ماہتاب کا ہالہ۔

الطِّفَافِي: ہانڈی کا جھاگ۔ کہا جاتا ہے "أَصْبَنًا طَفَاوَةً مِنَ الرَّبِيعِ" یعنی کچھ تھوڑا سا حصہ ملا۔ آفتاب یا ماہتاب کا ہالہ۔

الطِّفَافِي: ہانڈی کا جھاگ۔ کہا جاتا ہے "أَصْبَنًا طَفَاوَةً مِنَ الرَّبِيعِ" یعنی کچھ تھوڑا سا حصہ ملا۔ آفتاب یا ماہتاب کا ہالہ۔

الطِّفَافِي: ہانڈی کا جھاگ۔ کہا جاتا ہے "أَصْبَنًا طَفَاوَةً مِنَ الرَّبِيعِ" یعنی کچھ تھوڑا سا حصہ ملا۔ آفتاب یا ماہتاب کا ہالہ۔

الطِّفَافِي: ہانڈی کا جھاگ۔ کہا جاتا ہے "أَصْبَنًا طَفَاوَةً مِنَ الرَّبِيعِ" یعنی کچھ تھوڑا سا حصہ ملا۔ آفتاب یا ماہتاب کا ہالہ۔

الطِّفَافِي: ہانڈی کا جھاگ۔ کہا جاتا ہے "أَصْبَنًا طَفَاوَةً مِنَ الرَّبِيعِ" یعنی کچھ تھوڑا سا حصہ ملا۔ آفتاب یا ماہتاب کا ہالہ۔

الطَّلْبُ: سانپ۔

الطَّلَّةُ: خوش نما دل پسند۔ لذیذ خوشبو۔ لذیذ شراب۔ بیوی۔ ہلکی بارش کا ترکیا ہوا بارش۔ کھانے پینے کی وسعت۔ بڑھیا عورت۔ بدربان۔

الطَّلَّةُ: ایک مرتبہ دودھ پینے کی مقدار گردن ج طَلَل۔
الطَّلَاءُ: بے بدلہ خون۔الطَّلَلُ: بلند جگہ۔ ویران مکانات کے نشانات۔ ہر چیز کا جسم اور اسی سے ہے "اعْبَجَنِي طَلَلُهُ وَرَاقَتِي هَيْكَلُهُ" یعنی اس کا جسم اور ڈیل ڈول مجھے پسند آیا ج اَطَّلَّ و طَلُولٌ و طَلَّلُ السَّقِيَّةِ: شیشی کا پردہ۔ طَلَّلُ المَاءِ: پانی کی سطح الطَّلَلُ مِنَ الدَّارِ: چبوترہ۔
الطَّلَالَةُ: ہر چیز کا جسم۔ اچھی بیٹ۔ اچھی حالت۔ تروتازگی۔ شادمانی۔ ویران مکان کے نشانات۔الطَّلِيلُ: پرانی چٹائی۔ ج طِلَّةٌ وَاطِلَّةٌ و طَلَّلُ
الْمَطَّلُ: بلند مکان جس سے جھانکا جائے۔
الْمَطْلُولُ: مفتح..... مِنَ الْأَمَاكِينِ: جس پر ہلکی بارش ہوئی ہو۔
الْمَطْلِيلُ: کبیر۔

طَلَبٌ: (ن) طَلَبًا. الشَّيْءُ: ڈھونڈنا۔ اِلَيْهِ: راغب ہونا۔

طَلَبٌ: (س) طَلَبًا: ڈور ہونا۔
تَطَلَّبٌ وَاطْلَبُ. الشَّيْءُ: تکلف کے ساتھ اور بار بار ڈھونڈنا۔طَلَبُ. الشَّيْءُ: مہلت سے ڈھونڈنا۔
طَالِبُهُ طَالِبًا وِمَطَالِبَةٍ: اپنا حق مانگنا۔
أَطْلَبُهُ: مانگنے کے لئے مجبور کرنا۔ طلب کردہ چیز کو دینا۔ کہا جاتا ہے "أَطْلَبُهُ الْفَقْرُ" یعنی فقر نے مانگنے پر مجبور کر دیا۔ اَطْلَبُ الْمَاءُ: دور ہونا کہ بغیر ڈھونڈنے سے نڈل سکے۔

الطَّلْبِيَّةُ: اسم ہے مطالبہ کا۔ طلب کی نوعیت (..... و الطَّلْبِيَّةُ): جو چیز طلب کی جائے۔

الطَّلْبُ: جو چیز طلب کی جائے۔ طلب

کرنے والا۔ ج اَطْلَابٌ و طَلْبَةٌ.

الطَّلْبِيَّةُ: دور کا سفر۔
الطَّلَابُ: (ف) شَاغِرٌ۔ ج طَلْبَةٌ و طَلَابٌ و طَلْبٌ و طَلَّتْ.

الطَّلُوبُ: بہت زیادہ طلب کرنے والا۔ بِنْتُ طَلُوبٌ: کواں جس کا پانی دور ہو۔ ج طَلْبٌ. الطَّلِيبُ: بہت زیادہ مانگنے والا۔ ج طَلْبَاءٌ. الطَّلَابُ: بہت زیادہ مانگنے والا۔

الطَّلِيْبِيَّةُ: مؤنث طَلِيْبٌ: ج طَلَابٌ. السَّمَطْلَبُ: طلب کرنا۔ مقصد کسی علم کا کوئی مسئلہ ج مَطَالِبُ.

المُطَلَّبُ: (ف) مَاءٌ مُطَلَّبٌ: دور کا پانی۔
السَّمَطْلُوبُ: مفتح۔ جو طلب کیا جائے۔ ج مَطَالِبُ.

طَلَّتْ: (ن) طَلُوفًا. الْمَاءُ: پانی بہنا۔ جاری ہونا۔

طَلَّتْ عَلَيَّ كَذَا: زیادہ ہونا۔
الطَّلْفَةُ: جاہل۔ ضعیف العقل۔ کمزور بدن۔

طَلَحٌ: (ف) طَلَحًا و طَلَاخَةُ الْبَيْضِ: اُونٹ کا تھکانا۔ صفت طَلَحٌ و طَلَحٌ و طَلِيحٌ. طَلَحَ الْبَيْضِ و طَلَحَهُ وَاطْلَحَهُ: تھکانا۔ طَلَحَ عَلَيَّ فَلَانٌ: اصرار کرنا۔ طَلَحَ الْبَيْضِ: تھکانا۔

طَلَحٌ: (ن) طَلَاخًا: فاسد ہونا۔ خراب ہونا۔

طَلِيحٌ: (س) طَلَحًا و طَلِيحٌ: پیٹ خالی ہونا۔ صفت طَلِيحٌ و طَلِيحٌ و طَلِيحٌ. طَلِيحَتِ الْإِبِلُ طَلَحًا: ببول کھانے سے پیٹ خراب ہونا۔

الطَّلِيحُ: خشک۔ درخت خرما۔ کیلا۔ حوض کا بقیہ گدلا پانی۔ ببول کا درخت۔ واحد طَلْحَةٌ.

الطَّلِيحُ: لاغر۔ تھکا ہوا۔ کہا جاتا ہے "بَيْعِي طَلِيحٌ وَنَاقَةٌ طَلِيحٌ ج اَطْلَاخٌ و طَلَاخٌ. مَكَانٌ طَلِيحٌ: جس میں ببول کے درخت زیادہ ہوں۔

الطَّلِيحُ: نعمت۔ کہا جاتا ہے "هُوَ فِي طَلِيحٍ"

وہ خوش عیش ہے۔

الطَّلِيحُ: (ف) بَدَاكَرٌ۔ ج طَالِحُونَ و طَلِيحٌ. نَاقَةٌ طَالِحٌ و إِبِلٌ طَلِيحٌ: تھکے ہوئے اُونٹ۔

الطَّلَاحُ: بیکر کا درخت۔ اِبِلٌ طَلَاخٌ: سفر کی وجہ سے تھکا ہوا اُونٹ۔

الطَّلِيحُ: چیچڑی۔ لاغر۔ تھکا ہوا۔ کہا جاتا ہے بَعِيْرٌ طَلِيحٌ وَنَاقَةٌ طَلِيحَةٌ و طَلِيحٌ ج طَلَاخٌ و طَلِيحِيٌّ.

الطَّلِيحِيَّةُ: کاغذ کا ایک ورق ج طَلَاخِيٌّ. الْمَطْلِيحُ فِي الْكَلَامِ: بہتان گھڑنے والا..... فِي الْمَالِ: مال میں ظلم کرنے والا۔

طَلِيحٌ: (ن) طَلَحًا. الشَّيْءُ: کالا کرنا..... الْكِتَابَةُ: خراب کر دینا..... فَلَانًا بِالْقَدْرِ: لت پت کر دینا۔

إِطْلَحُ. الدَّمْعُ: بہنا۔ بکھرنا۔ الطَّلِيحُ: خراب پانی۔

الطَّلِيحَاءُ: بے وثوق عورت۔
إِطْلَحَمَ. الرَّجُلُ: بکبیر کرنا۔ غرور کرنا۔
أَمُورٌ مُطْلِحَاتٌ: سخت و دشوار امور۔

طَلَسٌ: (ض) طَلَسًا. الْبَصْرُ: نگاہ کا ضائع ہونا (..... و طَلَسَ) الْكِتَابَةَ: لکھے ہوئے کو مٹا دینا۔

طَلَسٌ: (س) طَلَسًا و طَلَسَ (ك) طَلَسَةً: خاکستری مائل بہ سیاہی ہونا۔ صفت اَطْلَسَ: ج طَلَسٌ.

طَلَسَ بِهِ فِي السَّبْحِ: قید خانے میں ڈالا جانا۔

تَطَلَسَ. الْكِتَابُ: مٹا (..... تَطَلَسَ) الرَّجُلُ: طَلَسَ: استعمال کرنا۔

إِنطَلَسَ الْأَمْرُ: پوشیدہ ہونا۔
إِطْلَسْنِي إِطْلِسْنَا. الْعَرَقُ: سارے جسم پر پسینہ بہنا۔الطَّلَسُ: کالی چادر۔
الطَّلَسُ: مٹایا ہوا کاغذ۔ میلا کپڑا ج اَطْلَسَ.

الطَّلَسَةُ: خاکستری مائل بہ سیاہی۔ پتلا پتلا

بادل ج طلس

الطَّلَاة: چیتھرا جس سے لکھی ہوئی تختی صاف کی جائے۔

الطَّلِيْس: اندھا۔

الطَّلِيْس: سبز رنگ کی چادر جس کو مشائخ و علماء استعمال کرتے تھے اور یہ عجمیوں کا لباس ہے ج طیلِس۔

الطَّلِيْسَان: یعنی طیلِس ج طیلِس و طیلِسَة۔

الاطَّلَس: بھیڑ یا جس کے بال گر گئے ہوں اور اس کا رنگ خاکستری یا نلکے پر سیاہی ہو۔ پرانا کپڑا۔ میلا۔ چور۔ ریشمی کپڑا۔

طَلَسَمَ عَنِ الْقِتَالِ: لڑائی سے پیچھے ہٹنا۔

الرَّجُلُ: سر جھکانا اور منہ بگاڑنا۔ السَّاجِرُ: جادوگر کا منتر لکھنا۔

الطَّلَسَم: جادو کی لکیریں یا تحریر ج طَلَسِم۔

الطَّلَسَم: یعنی طَّلَسَم ج طَّلَسَمَات۔

الطَّلَش: چمیری۔

طَلَطَلَة: حرکت دینا۔

الطَّلَاطِلُ وَالطَّلَاطِلَة: مصیبت۔

الطَّلَاطِلَة: مصیبت۔ موت۔ حلق کا کوا۔

الطَّلَاطِل: موت۔ سخت مرض۔

طَلَع (ن) طَلُوعًا وَمِطْلَعًا وَمِطْلَعًا

الْكُوكِبُ وَنُحُوءُ: ستارہ وغیرہ کا نکلنا۔

عَلَيْهِمْ: متوجہ ہونا۔ غَنَهُمْ: غائب ہونا اور

دور ہونا۔

طَلَع (ف ن) وَطَلِع (س) طَلُوعًا

الْعَجَلُ: پہاڑ پر چڑھنا۔ عَلَى الْأَمْرِ: جانتا

..... البلاد: ملکوں کا قصد کرنا۔

الْمَكَانُ: پہنچنا۔ مِنَ الْبِلَادِ: شہروں سے

نکلنا۔ وَطَلِع النُّخْلُ: شگوفہ نکلنا۔ طَلَع

الْكَيْلُ: بیابان کو بھرتا۔

طَالَعَهُ مَطَالَعَةً وَطَالَعًا: زیادتی غور و فکر

سے مطلع ہونا۔ الْكِتَابُ: کتاب پڑھنا

..... بِالْأَمْرِ: پیش کرنا۔ کہا جاتا ہے

"طَالَعَنِي كُلِّي وَقَبْتُ بِكَيْتِكَ" یعنی اپنی

کتاؤں کو ہر وقت میرے سامنے پیش کرو۔

أَطْلَعُ الْكُوكِبُ: ستارہ کا نکلنا۔ النَّبَاتُ:

نباتات کا اگنا۔ النَّخْلُ: شگوفہ نکلنا۔

السَّجُرُ: درخت کے پتے نکلنا۔ النَّخْلَةُ:

درخت خرما کا طویل ہونا۔ عَلَى الشَّيْ:

جھانکنا۔ الْفَجْرُ: فجر کے طلوع ہونے کو

دیکھنا۔ هُ عَلَى سِرِّهِ: واقف کر دینا۔ أَطْلَعُ

إِلَيْهِ مَعْرُوفًا: اچھا سلوک کرنا۔ أَطْلَعَهُ طَلَعُ

أَمْرِهِ: حقیقت حال کو ظاہر کر دینا۔ الرَّجُلُ:

قے کرنا۔ الرَّأْيُ: تیز کا نشانہ کے اوپر

سے نکل جانا۔ عَلَى فَلَانٍ: اچانک پہنچ

جانا۔

إِطْلَعُ الْأَمْرَ وَعَلَيْهِ: جانتا۔ عَلَيْنَا:

اچانک آ جانا۔ الْفَجْرُ: طلوع فجر کو دیکھنا۔

إِطْلَعُ طَلَعُ الْعَدُوِّ: دشمن کی حقیقت حال

سے واقف ہونا۔

تَطَلَعَهُ: جانتا۔ چہرے کی طرف دیکھنا۔

الرَّجُلُ: پایا۔ غَالِبٌ آتَا تَطَلَعُ

الْمَكِيَّالُ: بیابان کا بھرجانا۔ السَّمَاءُ مِنَ

الْإِنْدَاءِ: پانی کا برتن سے ابل پڑنا۔

إِسْتَطْلَعَهُ: ظاہر ہونے کی خواہش کرنا۔

حقیقت حال دریافت کرنا۔ "إِسْتَطْلَعُ رَأْيِي

فُلَانٍ وَإِسْتَطْلَعَهُ رَأْيَهُ" کسی کی رائے و

تدبیر پر غور کرنا۔

الطَّلَع: مقدار۔ تم کہتے ہو "السَّيْشُ طَلَعُ

أَلْفٍ" یعنی لشکر ہزار کی مقدار میں ہے۔

"مِنَ النَّخْلِ: کھجور کا گامھا۔ شگوفہ۔

الطَّلَع: اسم ہے اطلاع کا۔ کہا جاتا ہے

"إِطْلَعُ طَلَعُ الْعَدُوِّ" وہ دشمن کی حقیقت حال

کو جان گیا۔ سانپ۔

الطَّلَعُ وَالطَّلَعُ: بلند مکان جہاں سے

جھانکیں۔ گوشہ۔

الطَّلَعَةُ: دیدار۔ چہرہ۔

إِمْرَأَةٌ طَلَعَةٌ: عورت۔ بہت زیادہ ظاہر

ہونے والی۔ کہا جاتا ہے "نَفْسٌ طَلَعَةٌ" یعنی

اپنی خواہشات کی طرف زیادہ میلان رکھنے

والا نفس۔

الطَّلَاعُ مِنَ الْإِنَاءِ: پری ج طَّلَع. و طَّلَاعُ

الشَّيْ: مقدار شی۔ کہا جاتا ہے "هَذَا طَّلَاعُ

هَذَا" یعنی یہ اس کی مقدار ہے "عَيْنُ طَّلَاعُ"

آنسو سے بھری ہوئی آنکھ۔ قَدْحُ طَّلَاعُ:

بھرا ہوا پیالہ۔

الطَّلَاعُ: مہانڈے طالع: کہا جاتا ہے "هُوَ

طَّلَاعُ النَّسَايَا وَالْأَشْجَدُ" یعنی وہ بڑے

بڑے امور کا قصد کرتا ہے یا وہ امور میں

تجربہ کار ہے جن کی تدبیر اچھی طرح کرتا

ہے۔

الطَّلَعَاءُ وَالطَّلُوعُ: قے۔

الطَّلِيْعَةُ مِنَ الْجَيْشِ: ہراول۔ مقدمہ

الْجَيْشِ: جو لشکر کے پہلے بھیجا جائے تاکہ

دشمن کے احوال کو آنف کی تفتیش کرے۔

واحد و جمع دونوں میں مستعمل ہے۔ ج

طَّلَاعِ.

الطَّلَاعُ: قا۔ پہلی رات کا چاند۔ فجر کا ذب

..... غَنَةُ أَصْحَابِ الْقَالِ: زانچہ۔ ستاروں

کے طلوع سے جس پر سعد و نحس کا شگون لیا

جائے۔ ج طَوَّاعِ.

الطَّلُوعُ: یعنی طالع.

الْمَطَّلَعُ وَالْمَطَّلَعُ: ستاروں کے طلوع

ہونے کی جگہ۔ سِرْمِي: چڑھنے کی جگہ۔ ج

مَطَّلَعِ. مَطَّلَعُ الْأَمْرِ: کسی کام کے حصول کا

ذریعہ و طریقہ۔ مَطَّلَعُ الْقَصِيْدَةِ: قصیدہ کا

پہلا شعر۔

الْمَطَّلَعُ: قا۔ قوی غالب۔

الْمَطَّلَعُ: مفع۔ آنے کی جگہ۔ اونچے سے

جھانکنے کی جگہ۔

طَلَّفَ عَلَيْهِ: زیادہ کرنا۔

أَطْلَفَهُ كَذِبًا: بہرہ کرنا۔ أَطْلَفَ الدَّمُ: خون کو

رائیگاں کر دینا۔

الطَّلَفُ: داد و دہش۔ آسان چیز۔ زائد چیز

..... وَالطَّلَفُ: رائیگاں۔ کہا جاتا ہے

"ذَهَبَ دُمُهُ طَلْفًا" یعنی اس کا خون رائیگاں

گیا۔

الطَّلِيْفُ: ناخوڑ۔ رائیگاں۔ باطل۔

الطلي: شخص۔ قطران ملا ہوا۔ سخت مریض۔
ہرن کا بچہ اطلالہ: خواہش۔ کہا جاتا ہے
"قضى طلالہ" یعنی اپنی خواہش پوری کی۔
الطلي: لذت۔

السطلاء: قطران۔ انگور کارس جس میں سے
پکانے کی وجہ سے دو تہائی جاتا رہے اور
شراب سے بھی کٹا یہ کیا جاتا ہے۔ رتی جس
سے ہرن کے بچے کے ہیر کو باندھیں (.....)

والطلائية: ہر وہ چیز جس کا طلا کیا جائے۔
الطلاء: خون کے اوپر کی باریک جھلی۔

الطلي: دودھ ایک مرتبہ پینے کی مقدار۔
الطلية والطلاء: گردن ج طلي۔

الطلي: بکری کا چھوٹا بچہ۔ رج طليان (.....)
والطليان: دانوں کی زردی۔

المطلي والمطلاء: تنگ نالرج مطال۔
المطلي: دائم المرض۔ کمزور مریض۔ قیدی
کہ جس کی رہائی کی امید نہ ہو۔

طم: (ن) طمًا وطمومًا. الإناء: برتن بھرنا
..... الشمر: بال کا ضایا گرہ لگانا..... الماء:
ڈھانپ لینا..... الشبي: زیادہ ہونا

..... الامور: بڑا ہونا۔
طم: (ش ن) طمًا التمر: کنوئیں کو پاٹ
دینا۔

طم: (ن ض) طمًا وطمومًا. القرس:
گھوڑے کا آہستہ آہستہ دوڑنا۔

طم وطمم وطمم: الطائر: پرندہ کا شئی پر
اُترنا۔

أطم استطم الشمر: بال کا نئے وقت
قریب ہونا۔

الطم: پانی۔ سمندر۔ عدد کثیر۔ عمدہ گھوڑا۔
تجب: تجب اغمیز۔ کہا جاتا ہے "جاء بالطم
والزوم" یعنی بہت مال لایا۔

الطممة من الناس: جماعت طممة القوم:
قوم کے جمع ہونے کی جگہ۔

الطميم: آہستہ دوڑ۔ عمدہ گھوڑا۔ طميم
الناس: مختلف قسم کے لوگ۔

قرس طموم: تیز رفتار گھوڑا۔

الطامة: بڑی مصیبت۔ قیامت۔
الاطاميم: تانکے۔
طمان: دیکھو مادہ "طمن"۔

طمك: (ن ض) طمًا. الشبي: چھوٹا۔
طمث وطمثت (ن ك) طمًا.
المرأة: حائضہ ہونا۔ صفت طامث۔

الطمث: مہس۔ میل کچیل۔ فساد۔ خون۔
حيض۔ تہمت۔ کہا جاتا ہے "فما بفلان طمث
رنية" یعنی فلاں کے ساتھ تہمت کا میل کچیل
نہیں۔

طمخ: (ف) طمخًا وطمخًا وطموخًا
بصرة اليه: نگاہ اٹھانا۔ بصره واليه: بلندی
کی جانب دیکھنا..... بانفسه: مغرور ہونا۔

ناك چڑھانا..... به: لے جانا..... في
الطلب: کوشش کرنا۔

طمحت: (ف) طمخًا وطموخًا.
الذابة: جانور کا سرکش ہونا..... المرأة على
رؤسها: عورت کا نافرمان ہونا۔ صفت
طامخ رج طوامخ۔

طمخ القرس: گھوڑے کا اگلی ٹانگوں کو اٹھانا
..... بالشبي في الهواء: پھینکنا۔
أطمخ بصره اليه: نگاہ اٹھانا۔

بخر طموخ الموج: بلند موج والا سمندر۔
طمحات الذعر وطمحاته: مہاسب۔
الطماح: غرور۔ فخر۔

الطماح: دور۔ حریص۔
طمخ: (ن) طمخًا. بانفسه: تکبر کرنا۔
طمر: (ش) طمرًا. الشبي: ذفن کرنا۔

چھپانا..... طمرًا وطمورًا وطمارًا
وطمرانًا: کودنا۔ اُچھلنا۔
طمر: (ن) طمورًا: جانا۔ سفر کرنا۔

طمر: (ن) طمرًا. المطمورة: کھیتی
نہرنا۔

..... وطمر: (س) طمرًا الجرح:
سوج جانا۔

اليد: درم آ جانا۔
طمر في جزبه: دائرہ میں درو ہونا۔

طمر الشبي: لپیشنا اور ذفن کرنا..... الثبت:
پردہ لگانا۔

إطمر: علی قریبہ: پیچھے سے کود کر سوار
ہونا۔

الطمر: پرانا کپڑا جو کسی چیز کا مالک نہ ہو
أطمار: کہا جاتا ہے "لا تحت الشمس في
الاطمار" یعنی زرد رنگ کا ہو گیا اور اس کی
کچھ روشنی جاتی رہی۔

الطمير والطمير والطمير والطمير:
لمی ٹانگوں کا تیز رفتار گھوڑا۔

الطامير: فا۔ پورج۔ طوامير کہا جاتا ہے
"هو طامير من طامير" وہ مجھول ہے یہ بھی
نہیں معلوم کہ اس کا باپ کون ہے۔

الطمير: جمیل نادانی۔
طميرة الشبابة: ابتدائے شباب۔ مخفون
شباب۔

الطامور والطومار: مجید۔ رج طوامير کہا
جاتا ہے "کتب في الطومار والطومار"
المطمير والمطمار: معماروں کا دھاگا۔

پرانے لباس والا۔ کہا جاتا ہے "هو علی
مطمار أبيه" وہ صورت و سیرت میں اپنے
باپ کے مشابہ ہے۔

المطمورة: کھیتی۔ قید۔
طمس: (ن) طموسًا: دُور ہونا۔ کہا جاتا
ہے "لا أدري أين طمس" میں نہیں جانتا
کہاں گیا..... بعينه: دور تک دیکھنا۔

طمس: (ن ض) طمسًا وطموسًا
وتطمس واطمس: مٹا۔ طمس النجم
او البصر: ستارہ یا نگاہ کا بے نور ہونا۔

طمس: (ض) طمسًا الشبي: مٹانا۔
ہلاک کرنا۔ ڈھانپ لینا۔ چڑھو دینا.....
القيسم النجوم: بادل کا ستارے کی روشنی کو
زائل کر دینا۔

طمس: (ض) طمسًا الشبي: اندازہ
کرنا۔

زُبوع طماس: مٹے ہوئے مکانات۔
الطميس والمطموس: اٹھنا۔

طَمَطَمٌ: وسط سمندر میں تیرنا۔

الطَّمَطَامُ: وسط سمندر۔

الطَّمَطِيمُ وَالطَّمَطِيمِي وَالطَّمَطِمَانِي: زبان کی لکنت والا۔

طَمِيعٌ: (س) طَمِعًا وَطَمَاعًا وَطَمَاعِيَةً فِي الشَّيْءِ وَبِهِ: لالچ کرنا۔ صفت طامع وطمع وطمع ن طَمِيعُونَ وَطَمَاعَاءُ وَأَطْمَاعٌ وَطَمَاعِي.

طَمَعٌ: (ک) طَمَاعَةٌ: بہت لالچ کرنا۔

طَمَعَةٌ: لالچ پر برا بیخیز کرنا۔

أَطْمَعَهُ: لالچ میں ڈالنا۔

تَطْمَعٌ: لالچی ہونا۔ خواہش مند ہونا۔

الطَّمِيعُ: وہ چیز جس کی خواہش کی جائے۔ لشکر کی تحوہ۔ ج اطماع۔

الطَّمَاعَةُ: خواہش مندی۔

الطَّمَاعُ وَالْمِطْمَاعُ: بہت زیادہ لالچی۔

الْمِطْمَاعُ: جس کی خواہش کی جائے۔ ج مطامع۔

الْمِطْمَاعَةُ: باعث طمع۔ لالچ پر اُکسانے والی چیز۔

طَمِيعَةٌ: (س) طَمِعًا عَيْنُهُ: آنکھ کا بہت کچھڑ والی ہونا۔

طَمَلٌ: (ن) طَمَلًا الْخَيْارُ الْخَيْزُ: روٹی کو تین سے چوڑی کرنا۔ الطوب: کپڑے کو گہرا رنگنا۔

الذَّمُّ السَّهْمُ وَغَيْرُهُ: خون کا تیر کرنا۔

التَّيْبَرُ: الزَّاعِي: چرواہے کا تختی سے ہانکنا۔

طَمِيلٌ: (س) وَطَمِيلٌ طَمَلًا: خون تیل یا تارکول سے تھیننا۔ صفت طَمِيلٌ.

أَطْمَلُ: الْيَتَامُ: مٹا دینا۔

أَنْطَمَلَ الرَّجُلُ: چوروں کے ساتھ شریک ہونا۔

الطَّمَلُ: غمیر۔ گوندھا ہوا آٹا۔ مخلوق۔

الطَّمَلُ: بے وقوف۔ کمینہ۔ بدکار۔ بد زبان جو نہ اپنے فعل پر شرمائے اور نہ کسی کے کچھ

کہنے کی پروا کرے۔ کالا کبیل۔ فقیر۔ بد حال بد شکل ہار۔ پرانا کپڑا۔ ج طَمُولٌ (.....)

وَالطَّمَلَةُ وَالطَّمَلَةُ: گدلا پانی۔ کچڑ۔

الطَّمَائِلُ: فاجر مرد بدکار جو اپنے فعل کی پروا نہ کرے۔

الطَّمِيلُ: گدلا پانی۔ گناہ۔ چٹائی۔ ہار۔ تلوار وغیرہ کا چوڑا پھل۔ بکری کا بچہ۔ سہم۔

طَمِيلٌ: خون سے لت پت تیر۔ خَبِيزٌ طَمِيلٌ: بیلن سے چوڑی کی ہوئی روٹی۔

الطَّمُولُ: بدکار جو اپنے فعل کی پروا نہ کرے۔

الطَّمُولَةُ: بدکار کی بدکاری۔

المِطْمَلَةُ: بیلن۔

طَمَانٌ طَمَانَةٌ وَطَامَنٌ: ظہور۔ پیٹھ کو پست کرنا۔ جھکانا۔ الشئ: ساکن کرنا۔

تَطَامَنٌ: پست ہونا۔

إِطْمَانٌ إِطْمَانَةٌ وَطَمَانِيَةٌ إِلَيْهِ: آرام لینا۔ قرار پکڑنا۔ پست ہونا۔ کہا جاتا ہے

"إِطْمَانٌ عَمَّا كَانَ يَفْعَلُهُ" یعنی چھوڑ دیا۔ الطمن: ساکن ج طُمُونٌ.

السُّطْمَيْنِ: ساکن..... مِنَ الْأَرْضِ: نرم پست زمین۔

طَمًا يَطْمُو طُمُوًا وَطَمِي يَطْمِي طَمِيًا السَّمَاءُ: پانی کا بلند ہونا اور شہر کو بھردینا.....

الْبَحْرُ: سمندر کا بھر جانا..... النَّبْتُ: نباتات کا طویل ہونا۔ بڑھنا۔

طَمَّتْ هَمَّتْ: ہمت بلند ہونا۔ طَمًا بِهِ الْهَمُّ أَوْ الْغَوْفُ: غم یا خوف کا سخت ہونا۔

طَنٌ: (ض) طَنَا وَطَنِيًا وَطَنَّ الذَّنَابُ أَوْ النَّافُوسُ وَشِبْهُ ذَلِكَ: جھنٹانا۔ جانا۔ آواز دینا۔ وَطَنٌ فَلَانٌ: مرنا۔

أَطَنَّ: جانا۔ آواز کرنا۔ أَطَنَّ السَّاقُ: پنڈلی کو کاٹ دینا۔

الطَّنُّ: جسم ج اَطْنَانٌ وَطَنَّ: بانس کا گٹھا اور ایک بانس طَنَّةٌ کہلاتا ہے۔ الطَّنُّ: دھکی ہوئی روٹی کا بوجھ۔

الطَّنَّانُ: زیادہ بچنے والا۔ کہا جاتا ہے "الْفُلَانُ ذِكْرٌ طَنَّانٌ" یعنی فلاں کا ذکر مشہور ہے۔ "وَبَلَدٌ قَصِيدَةٌ طَنَّانَةٌ" یعنی اس

قصیدہ کی ہر جگہ میں شہرت ہے۔

الطَّنَّانَةُ: زیادہ چمکیلے بالوں والے مختلف اقسام کے کپڑے جن کے اڑنے سے جھنجھٹانے کی آواز آتی ہے پھولوں کے لئے فائدہ مند ہے۔

الطَّنَّانَةُ: زیادہ چمکیلے بالوں والے مختلف اقسام کے کپڑے جن کے اڑنے سے جھنجھٹانے کی آواز آتی ہے پھولوں کے لئے فائدہ مند ہے۔

الطَّنَّانَةُ: زیادہ چمکیلے بالوں والے مختلف اقسام کے کپڑے جن کے اڑنے سے جھنجھٹانے کی آواز آتی ہے پھولوں کے لئے فائدہ مند ہے۔

الطَّنَّانَةُ: زیادہ چمکیلے بالوں والے مختلف اقسام کے کپڑے جن کے اڑنے سے جھنجھٹانے کی آواز آتی ہے پھولوں کے لئے فائدہ مند ہے۔

الطَّنَّانَةُ: زیادہ چمکیلے بالوں والے مختلف اقسام کے کپڑے جن کے اڑنے سے جھنجھٹانے کی آواز آتی ہے پھولوں کے لئے فائدہ مند ہے۔

الطَّنَّانَةُ: زیادہ چمکیلے بالوں والے مختلف اقسام کے کپڑے جن کے اڑنے سے جھنجھٹانے کی آواز آتی ہے پھولوں کے لئے فائدہ مند ہے۔

الطَّنَّانَةُ: زیادہ چمکیلے بالوں والے مختلف اقسام کے کپڑے جن کے اڑنے سے جھنجھٹانے کی آواز آتی ہے پھولوں کے لئے فائدہ مند ہے۔

الطَّنَّانَةُ: زیادہ چمکیلے بالوں والے مختلف اقسام کے کپڑے جن کے اڑنے سے جھنجھٹانے کی آواز آتی ہے پھولوں کے لئے فائدہ مند ہے۔

الطَّنَّانَةُ: زیادہ چمکیلے بالوں والے مختلف اقسام کے کپڑے جن کے اڑنے سے جھنجھٹانے کی آواز آتی ہے پھولوں کے لئے فائدہ مند ہے۔

الطَّنَّانَةُ: زیادہ چمکیلے بالوں والے مختلف اقسام کے کپڑے جن کے اڑنے سے جھنجھٹانے کی آواز آتی ہے پھولوں کے لئے فائدہ مند ہے۔

الطَّنَّانَةُ: زیادہ چمکیلے بالوں والے مختلف اقسام کے کپڑے جن کے اڑنے سے جھنجھٹانے کی آواز آتی ہے پھولوں کے لئے فائدہ مند ہے۔

الطَّنَّانَةُ: زیادہ چمکیلے بالوں والے مختلف اقسام کے کپڑے جن کے اڑنے سے جھنجھٹانے کی آواز آتی ہے پھولوں کے لئے فائدہ مند ہے۔

الطَّنَّانَةُ: زیادہ چمکیلے بالوں والے مختلف اقسام کے کپڑے جن کے اڑنے سے جھنجھٹانے کی آواز آتی ہے پھولوں کے لئے فائدہ مند ہے۔

الطَّنَّانَةُ: زیادہ چمکیلے بالوں والے مختلف اقسام کے کپڑے جن کے اڑنے سے جھنجھٹانے کی آواز آتی ہے پھولوں کے لئے فائدہ مند ہے۔

الطَّنَّانَةُ: زیادہ چمکیلے بالوں والے مختلف اقسام کے کپڑے جن کے اڑنے سے جھنجھٹانے کی آواز آتی ہے پھولوں کے لئے فائدہ مند ہے۔

الطَّنَّانَةُ: زیادہ چمکیلے بالوں والے مختلف اقسام کے کپڑے جن کے اڑنے سے جھنجھٹانے کی آواز آتی ہے پھولوں کے لئے فائدہ مند ہے۔

الطَّنَّانَةُ: زیادہ چمکیلے بالوں والے مختلف اقسام کے کپڑے جن کے اڑنے سے جھنجھٹانے کی آواز آتی ہے پھولوں کے لئے فائدہ مند ہے۔

الطَّنَّانَةُ: زیادہ چمکیلے بالوں والے مختلف اقسام کے کپڑے جن کے اڑنے سے جھنجھٹانے کی آواز آتی ہے پھولوں کے لئے فائدہ مند ہے۔

الطَّنَّانَةُ: زیادہ چمکیلے بالوں والے مختلف اقسام کے کپڑے جن کے اڑنے سے جھنجھٹانے کی آواز آتی ہے پھولوں کے لئے فائدہ مند ہے۔

الطَّنَّانَةُ: زیادہ چمکیلے بالوں والے مختلف اقسام کے کپڑے جن کے اڑنے سے جھنجھٹانے کی آواز آتی ہے پھولوں کے لئے فائدہ مند ہے۔

الطَّنَّانَةُ: زیادہ چمکیلے بالوں والے مختلف اقسام کے کپڑے جن کے اڑنے سے جھنجھٹانے کی آواز آتی ہے پھولوں کے لئے فائدہ مند ہے۔

"مُدَّتِ الشَّمْسُ أَطْنَابَهَا" یعنی آفتاب طلوع ہوا۔ "تَقَطَّبَتْ أَطْنَابَهَا" یعنی غروب ہوا۔ والإطْنَابَةُ: مکان کے قبضہ پر باندھنے والا سرجِ اطْنَابِ کہا جاتا ہے "نَخِيلُ اطْنَابِ" بعض بعض کے پیچھے چلنے والے۔

المَطْنَبُ: کندھا۔ موٹھا۔ سرجِ مَطْنَابِ۔

المُطْنَبُ: فَا۔ بہت تعریف کرنے والا۔

جَيْشُ مَطْنَابٍ: بہت بڑا لشکر۔

الطَّنْبُورُ وَالطَّنْبَارُ: ستارِ طَّنَابِيرِ۔

طَنْبَلُ طَنْبَلَةَ الرَّجُلِ: عقل مندی کے بعد بے وقوف بننا۔ کہا جاتا ہے "كَمَا نَبْنُ مَنَّهُمْ طَنْبَلَةً" یعنی ان کے درمیان شرف و فساد ہے۔

الطَّنْبِلُ: بے وقوف۔ کند ذہن۔

الطَّنْجُورَةُ: تانبے کی دنگی۔

الطَّنْجِيرُ: کڑائی۔ کنایہ از بزدل و کمینہ۔

طَنْخٌ: (س) طَنْخًا: بدبھمی ہونا۔ دل پر چربی غالب ہونا۔ موٹا ہونا۔ صفتِ طَنْخِ و طَانِخٌ طَبِخَتْ نَفْسُهُ جی کا بگڑنا۔

أَطْنَحُهُ وَطَنْخُهُ: بدبھمی کرنا۔ کہا جاتا ہے "فَمَرَّ طَنْخٌ مِنَ اللَّيْلِ" رات کا ایک حصہ گزر گیا۔

طَنْزٌ: (ن) طَنْزًا: بہ تمسخر کرنا۔

تَطَانَزَ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کے ساتھ تمسخر کرنا۔

الطَّنَازُ: تمسخر کرنے والا۔

الطَّنْطَلَةُ: عِنْدَ الْعَامِيَةِ: حلق کا کوا۔ صحیح لفظ طَلَاطَلَةٌ ہے۔

طَنْطَنٌ طَنْطَنَةً: الجرسُ وَالطَّنْطُ وَالذَّنَابُ وَنَحْوُهَا: جرس کا جتنا۔ طشت کا آواز دینا۔ کسی کا جھنجھانا۔

طَيْفٌ: (س) طَيْفًا: متہم ہونا۔ طَنْفَانَةٌ وَطَنْوْفَةٌ وَطَنْفًا: بدباطن ہونا۔ صفتِ طَيْفِ۔

طَنْفُهُ: متہم کرنا۔ طَنْفُ الْجِدَارِ: دیوار پر کانٹے کی باڑھ لگانا۔ کانس نکالنا۔ مہتابی بنانا

..... نَفْسُهُ إِلَى كَذَا: لالچ کے قریب کرنا۔

تَطَنَّفَ الْقَوْمُ: قوم پر پہنچ کر گھیر لیا۔

الطَّنْفُ وَالطَّنْفُ وَالطَّنْفُ وَالطَّنْفُ: پہاڑ کی چوٹی۔ پہاڑ کی اُبھری ہوئی چٹان۔

تَهَجَّرَ: کانس۔ مہتابی جِ طَنْوْفٍ وَأَطْنَابِ۔

المُطْنِفُ: تہجیر یا کانس والا۔ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے والا۔

طَنْفَسٌ: بدخلق ہونا۔ بہت کپڑے پہننا۔

الطَّنْفِيسُ: رردی۔ بد شکل۔

الطَّنْفَسَةُ وَالطَّنْفَسَةُ وَالطَّنْفِيسَةُ: فرش۔ چٹائی۔ کپڑا۔ سرجِ طَّنْفِيسِ۔

الطَّنُو: بدکاری۔

الطَّنُو: فرش۔

طَنْسِيٌّ: (س) طَنْسِيٌّ وَأَطْنِيٌّ: تلی یا پھینچوڑے کا پہلو یا پسلیوں سے چٹنا۔ صفتِ طَنْسِيٌّ وَأَطْنِيٌّ

فِي قَجْوَرِهِ أَوْ قَسَادِهِ: بدکاری یا فساد میں ہمیشہ مبتلا رہنا (..... طَنْسِيٌّ) اللِّبِغُ مِنَ لَدُنْغِ الْعَقْرِبِ: بچھو کے کانٹے کا اچھا ہو جانا۔

أَطْنَاةُ الْمَرِضِ: مرض کا باقی رہ جانا۔

طَنْسِيٌّ: تلی یا پھینچوڑے کی بیماری کا علاج کرنا۔

الطَّنِيٌّ: تہمت۔ بھیجی ہوئی راکھ۔ مرض۔

الطَّنِيٌّ: بدکاری و فساد۔

الطَّنَانِيُّ: فَا۔ زنا کارِ جِ طَنْنَاةِ۔

طَهَّرَ (ن) وَطَهَّرَ (ك) طَهْرًا وَطَهْرًا وَطَهْرًا: پاک ہونا۔ صفتِ طَاهِرٌ جِ أَطْهَارِ طَهَّرَ جِ طَهْرُونَ وَطَهِيرٌ جِ طَهْرًا: یعنی پاک دامن۔

طَهْرَةٌ: (ف) طَهْرًا: دور کرنا۔

طَهْرَةٌ: پاک کرنا۔ طَهَّرَ الشَّيْءَ بِالسَّمَاءِ: دھونا۔

تَطَهَّرَ وَاطْهَرُ: میل پھیل سے پاک ہونا۔ نہانا۔

الاطْهَارُ: عورت کی یا کی کا زمانہ۔

الطَّهْوَرُ: جس سے پاکی حاصل کی جائے۔

الطَّهْرَةُ: پاکی۔ پانی سے نہانا۔

المَطْهَرُ: موت کے بعد ایک مدتِ معینہ کے لئے ابرار و صالحین کے نفوس کے پاک

کرنے کی جگہ (کلمہ نصرانیہ)

المَطْهَرَةُ وَالْمِطْهَرَةُ: لوٹا۔ طہارت حاصل کرنے کا مکان۔ کہا جاتا ہے "السَّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ" یعنی سواک منہ کی صفائی کا سبب ہے۔ سرجِ مَطَاهِرِ۔

المُطْهَرَةُ: متعدی امراض کے مریض کے کپڑے اور سامان کے صاف کرنے کا آلہ۔

طَهَّسَ: (ف) طَهَّسًا: فِی الْأَرْضِ: داخل ہونا اور گھسنا۔

طَهَّشَ: (ف) طَهَّشًا الْعَمَلَ: کام کو بگاڑ دینا۔

أَطْهَفَ: السِّقَاءُ: نرم ہونا۔ ڈھیلا ہونا۔ فِی الْكَلَامِ: آسان اور روانی سے کہنا۔ لِفُلَانٍ مِنْ مَالِهِ طَهْفَةً: کچھ حصہ دینا۔

الطَّهْفُ: جھوسہ۔

الطَّهْفُ: بناہ۔

رُبْدَةٌ طَهْفَةٌ: نرم کھن۔

الطَّهْفَةُ: مِنَ الشَّيْءِ: بکرا۔

الطَّهَافُ: مِنَ السَّحَابِ: بلند بادل۔

الطَّهَافَةُ: گیسو۔

طَهَّقَ: (ف) طَهَّقًا: تیز چلنا۔

طَهَّلَ وَطَهَّلَ (ف) طَهْلًا وَطَهْلًا وَتَطَهَّلَ: الماءُ: بدبودار ہونا۔ صفتِ طَاهِلٌ وَطَهْلٌ۔

أَطْهَلَتِ: الْأَرْضُ: تھوڑی سی گھاس اُگانا۔

الطَّهْلَةُ: تھوڑی سی گھاس۔ بقیہ شے۔

طَهَّمِ الشَّيْءُ: موٹا ہونا۔ مِنْهُ: نفرت کرنا۔

تَطَهَّمِ الطَّعَامَ: ناپسند کرنا۔ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ يَتَطَهَّمُ عَنَّا" فلاں ہم سے وحشت کرتا ہے۔

المُطَهِّمُ: موٹا۔ کمزور۔ مکمل اور خوش نما اور اسی سے ہے "يَجْوِذُ مُطَهِّمًا" یعنی خوبصورت۔ عمدہ گھوڑا۔

طَهَّا يَطْهَهُ طَهْرًا: سخر کرنا۔ جانا۔

طَهَّا يَطْهَهُ وَيَطْهِي طَهْوًا وَطَهْوًا وَطَهِيًا وَطَهِيَاةً: اللِّحْمَ: پکانا یا جھوننا۔

أَطْهَى أَطْهَاءً: پکانے یا بھوننے میں ماہر ہونا۔

الطَّهْوُ: کام۔

الطَّهْيُ: تنکا۔

الطَّهْيُ: گناہ۔ پکا ہوا۔

الطَّهْيُ: سخت مار۔ پتلا بادل۔

الطَّهْيُ: فاقہ۔ باروچی۔ تانبائی۔ بھوننے والا۔ جِ طَهَاةٍ وَطَهْيٍ: مؤنث طَاهِيَةٌ جِ طَوَاهٍ وَطَاهِيَاتٍ۔

الطَّهْيَانِيَّةُ: پکانے کا پیشہ۔

الطَّهْوَةُ: دودھ یا خون کے اوپر کی باریک جھلی۔

الطَّهَاءَةُ: بلند بادل۔

طَاءٌ يَطَاءُ وَيَطْوُءُ طَوْءًا: آتا جاتا۔ فَيْ الْأَرْضِ: دور تک نکل جاتا۔

تَطَاءَتْ تَطَاوِيًا: الْأَسْعَارُ: بھاؤ کا گراں ہونا۔

الطَّاءَةُ: بچپن۔ چراگاہ میں دور نکل جانا۔ کہا جاتا ہے "مَا بِالذَّارِ طَوِيٌّ" یعنی گھر میں کوئی نہیں۔

الطَّوْبُ: بچی اینٹ۔ واحد طَوْبَةٌ۔

الطَّوَابُ: خشت پز۔

طَاخٌ يَطْوُحُ طَوْحًا: حیران ہونا۔ ہلاکت کے قریب ہونا..... السَّهْمُ: نشانہ سے خطا کرنا۔

طَوْحُهُ: حیران کرنا۔ آوارہ پھرانا۔ طَوْحٌ بِسَهْمٍ: خطرناک امور پر برا بھینٹہ کرنا۔ نضائے آسمانی میں پھینکنا۔ کہا جاتا ہے "طَوْحَتْ بِهِ طَوَائِحُ الزَّمَنِ" یعنی زمانے کے حوادث نے اس کو پھینک دیا۔

طَوْحٌ تَطْوِيحًا وَطِيحٌ تَطْيِيحًا الشَّيْءُ: ضائع کرنا۔

طَاوِحَةٌ فَطَاوِحَةٌ بَكْدًا: ایک دوسرے پر پھینکنا۔

أَطَاخَهُ: ہلاک کرنا۔ فنا کرنا۔ أَطَاخَ الشَّعْرُ: بال گرا دینا۔

تَطَوَّحَ فِي الْبِلَادِ: سرگرداں ہونا اور ادھر

أُدْهَرَ يَهْرَتًا: فَيْ الشَّرِّ: کونکوں میں گرنا۔ کہا جاتا ہے "نَامَ عَلَيَّ مَطِيحَةً. يَتَطَوَّحُ" یعنی وہ ہوا میں آدورفت رکھتا ہے۔

تَطَاوَحَ تَطَاوُحًا القَوْمُ فَلَانًا بِالْأَمْرِ: بِالضَّرْبِ: آپس میں تنازع کرنا۔ تَطَاوَحَتْ بِهِ النُّوَى: فراق اور بعد نے اس کو پھینک دیا۔

الطَّوْحُ: دُور۔ بعید۔ کہا جاتا ہے "بَيْتَةُ طَوْحٍ" دور کی نیت۔

الطَّوَانِحُ: شہائد۔ مہلکات۔

المَطَاوِحُ: ہلاکت کی جگہیں۔ واحد مَطَاوِحَةٌ۔

المَطْوُوحُ: لالچی۔

طَاخَهُ يَطْوُحُهُ طَوْحًا: قول یا فعل کی تہمت لگانا۔ صفت طَوْاحٌ۔

طَاذَ يَطْوُذُ طَوْذًا: ثابت رہنا۔

طَوَّذَ وَتَطَوَّذَ فِي الْبِلَادِ: پھرنا۔ طَوَّذَ بِهِ: مہلک جنگلوں میں جانے پر برا بھینٹہ کرنا۔

إِنطَاذٌ: ہوا میں بلند ہونا۔

الطَّوْدُ: حص۔ پہاڑ۔ ٹیلہ۔ جِ أَطْوَادٍ وَطَوْدَةٍ۔

المَطَاوِدُ: دور دراز کا بیابان۔

المَطَاوِدُ: خطرناک مقامات۔

المُنطَادُ: بلند۔ غبارہ۔ جِ مَنَاطِيِدٌ۔

طَارَ يَطْوِرُ طَوْرًا: وَطَوَّرَ أَنَا بِفُلَانٍ: قریب ہونا۔

الطَّوْرُ: اندازہ وحد۔ کہا جاتا ہے "عَدَا طَوْرَهُ" یعنی حد سے بڑھ گیا۔ و "جَاوَزَ طَوْرَهُ" اندازہ سے تجاوز کر گیا۔ بَيْتٌ - حَالٌ - بَارِي - کہا جاتا ہے "أَتَيْتُهُ طَوْرًا بَعْدَ طَوْرٍ" یعنی بار بار جِ أَطْوَارٍ اور کہا جاتا ہے "النَّاسُ أَطْوَارٌ" یعنی لوگ مختلف قسم کے اور مختلف حالات کے ہیں۔

الطَّوْرُ: پہاڑ۔ مکان کے سامنے کا گھن۔ وہ چیز جو کسی چیز کے انداز پر ہو یا اس کے مقابل ہو۔

الطَّوَارُ: وہ چیز جو کسی چیز کے مقابل ہو۔ یا

اس کے اندازہ پر ہو۔ (..... وَالطَّوَارُ): مکان کے سامنے کا گھن۔ کہا جاتا ہے "هَدَيْهِ الْمَذَارُ عَلَيَّ طَوَارِ ذَارِي" یعنی اس کی دیوار میرے مکان کی دیوار سے ملی ہوئی ہے۔

الطَّوْرِيَّ وَالطَّوْرَانِيَّ: وحش پرندہ ہو یا آدمی۔ الطَّوْرِيَّ: الجبلی۔ کہا جاتا ہے "مَا بِالذَّارِ طَوْرِيَّ" یعنی کوئی نہیں۔

طَارِيَةُ الْمَنْخَلِ: جھلی کا گھیر اور یہ محرف ہے۔ صحیح "الإطَارُ" ہے۔

الطَّارَةُ وَالطَّارُ: عِنْدَ الْعَامَةِ: دائرہ۔ دف۔ کہا جاتا ہے "لَقِيَ مِنِّي الْإطْوَارِيْنَ" یعنی اس کو اس سے بڑی مصیبت پہنچی اور مبالغہ کے ارادہ سے جمع سالم لایا جاتا ہے "هَلَّخَ فُلَانٌ فِي الْعِلْمِ أَطْوَرِيَهُ" فلاں علم کی دونوں حد ازل و آخر یعنی علم کی ابتدا پر پہنچ گیا۔

الطَّوْرِيْبِيْلُ: أَلطَّوْرِيْبِيْلُ: سمندری سرنگ (ٹنل)۔

طَاسٌ يَطْوِسُ طَوْسًا: الوَجْهُ: چہرے کا خوبصورت ہونا..... الشَّيْءُ: روندنا۔

طَوَّسَهُ: مَرَّيْنُ: طَوَّسَ: طَوَّسَ: مَوْرُ: کی شکل بنانا۔ طَوَّسَ بِهِ: لے جانا۔

تَطَوَّسَ لِلْحِمَامَةِ: کبوتری کے سامنے پروں کو پھیلاتا۔ تَطَوَّسَتِ الْمَرْأَةُ: آراستہ مَرَّيْنُ ہونا۔

الطَّوْسُ: چاند۔

الطَّوْسُ: ایک مسہل دوا کا نام۔

الطَّاسُ: پانی پینے کا برتن۔ پیالہ جِ طَاسَاتٍ۔

الطَّاوُوسُ وَالطَّاوُوسُ: مَوْرٌ - تَغْيِيرُ طَوْيَسٍ: جِ أَطْوَاوسٍ وَطَوَاوِيْسٍ۔

طَوَّشَ: الرَّجُلُ: نال مثل کرنا..... الذَّكْوُ: آختہ کرنا۔

الطَّوَاوِيْسِيُّ: آختہ۔ خصی۔ جِ طَوَاوِيْسِيَّةٌ: مولد ہے اور کہا گیا کہ لفظ عجی ہے۔

طَاعَ يَطْوَعُ وَيَطَاعُ طَوْعًا لِفُلَانٍ: فرماں

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ بِرَجِيحٍ كَازِيَادَةٍ۔
 الطَّائِفُ: فاعل۔ چوکیدار۔
 الطَّائِفَةُ: مؤنث طائف: جماعت۔ گروہ۔
 نكزًا كَسِي حَيْزٍ كَاوَهُ لَوِغٌ جَوَاكِبُ مَذْهَبٍ يَارَانِي
 كَهُوں۔ رج طَائِفَاتٌ طَوَائِفُ۔
 الطَّوَّافُ: بہت پھرنے والا۔ بہت
 پکر لگانے والا۔ خادم۔ گھنٹی۔ گھنٹی بنانے
 والا۔
 المَطَّافُ: طواف کرنے کی جگہ۔
 طَاقٌ يَطْوِقُ طَوْفًا وَطَاقَةٌ وَأَطَاقَ الشَّيْءُ
 : قادر ہونا۔
 أَطَاقَ عَلَى الشَّيْءِ: قادر ہونا۔ طاقت
 رکھنا۔
 طَوْقَةُ الشَّيْءِ: کسی کام کی تکلیف دینا۔ طَوْقَهُ
 الطَّوْقُ: طوق پہنانا۔ کہا جاتا ہے "طَوْقَةُ
 بِالسَّيْفِ وَعَظِيمَةٌ" اس نے اُسے تلوار
 باندھ دی۔
 إِطْوَقَ وَتَطْوَقُ: طوق پہننا۔ تَطْوَقْتُ
 الحَيَّةُ: کندلی مارنا۔
 الطَّاقُ: محراب۔ طاقت۔ رج طَاقَاتُ
 وَطَيْقَانُ. الطَّاقُ: بغیر گریبان کے ایک قسم کا
 کپڑا (..... الطَّائِقُ): پہاڑ سے نکلا ہوا بڑا
 پتھر۔ و طَائِقٌ كَمَثَلِ شَيْءٍ: احاطہ کرنے والا۔
 الطَّوْقُ: گلے کا زیور۔ گھا۔ ہر احاطہ کرنے
 والی اَطْوَاقُ۔
 الطَّوْقُ وَطَوْقَةُ: قدرت۔ طاقت۔ کہا
 جاتا ہے "هَذَا فِئِ طَوْقِي" یعنی یہ میری
 طاقت میں ہے "لَا تُحْمِلُنَا مَا لَا طَاقَةَ

کام کو بخوشی کیا۔
 المَطْوُوعُ وَالمَطْوُوعَةُ: فرمانبردار۔
 المَطْوُوعَةُ: رضا کارانہ جہاد میں شامل
 ہونے والے۔
 المَمْتُطَّوِعُ وَالمَمْتُطَّوِعَةُ: فرائض و واجبات
 کے علاوہ اعمال صالحہ کو بطور نفل ادا کرنے
 والا۔
 طَافَ يَطْوِفُ طَوْفًا وَطَوَّافًا طَوَّافَانَا
 بِالْمَكَانِ وَحَوْلَهُ: گھومنا۔ پکر لگانا..... فِئِ
 الْبِلَادِ: ملک میں پھرتا..... بِهِ الْخِيَالُ فِئِ
 النُّومِ: خواب میں نظر آنا۔
 طَوْفُهُ تَطْوِيفًا وَتَطْوِيفًا: گھومنا۔ طَوْفٌ
 فِي الْبِلَادِ: ملک میں پھرتا۔
 طَوْفٌ وَتَطْوِيفٌ وَتَطْوِيفًا: گھومنا۔ اسْتَطَافَ
 اسْتِطَافَةُ بِالشَّيْءِ وَحَوْلَهُ: بہت پکر لگانا۔
 "طَوْفُ النَّاسِ أَوِ الْجَرَادِ" آدمی یا
 مڈیوں کا زمین پر چھا جانا۔ اسْتِطَافَةُ:
 گھومنا۔ پکر لگانا۔
 أَطَافَ بِالشَّيْءِ: نازل ہونا۔ احاطہ کر لینا۔
 قَرِيبٌ هُوَ..... عَلَيْهِ وَبِهِ: رات کو آنا.....
 عَلَيْهِ: گرد گھومنا۔
 الطَّوْفُ: پانی پر تیرنے والی چیز۔ گھنٹی۔
 الطَّوْفُ: رات کو پہرا دینے والے
 چوکیدار۔ دیوارِ اَطْوَافُ۔
 الطَّافُ: بہت زیادہ طواف کرنے
 والا۔
 الطَّوْفَانُ: سخت سیلاب۔ سخت بارش۔ رات
 کا سخت اندھیرا۔ موت تباہ کن۔

بردار ہونا۔ صفت طَائِعٌ وَطَائِعُونَ
 کہا جاتا ہے "أَمْرَةٌ فَاطَاعٌ" اسے حکم دیا اور
 اس نے اطاعت کی۔ اس موقع پر باب
 افعال ہی سے استعمال ہے مجرد سے نہیں۔
 "لِسَانُهُ لَا يَطْوِعُ بَكْذًا" یعنی اس کی زبان
 تابعداری نہیں کرتی و "طَاعَ لَهُ المَرْتَعُ"
 یعنی چراگاہ اس کے لئے وسیع ہے۔
 أَطَاعَهُ إِطَاعَةً وَطَاعَةً: فرمانبردار
 ہونا۔ أَطَاعَ الشَّجَرُ: پھل پکنا۔ أَطَاعَ لَهُ
 المرعى: و أَطَاعَهُ: چراگاہ کا کشادہ ہونا۔
 انْطَاعَ انْطِيعًا: لُة: فرمانبردار ہونا۔
 تَطْوَعُ: حکتف اطاعت کرنا۔ تَطْوَعُ فِي
 الجُنْدِيَّةِ: لشکر میں رضا کارانہ شامل ہو جانا۔
 بِالشَّيْءِ: جبر کرنا..... بِالشَّيْءِ وَللشَّيْءِ:
 حکتف استطاعت ظاہر کرنا..... الشَّيْءِ:
 ارادہ کرنا۔ قصد کرنا۔
 تَطَاوَعُ لِلْأَمْرِ: حکتف استطاعت ظاہر
 کرنا۔
 اسْتَطَاعَ اسْتَطَاعَةً: الامور: طاقت رکھنا
 اور حذفتاء کے ساتھ اسْتَطَاعَ يَسْتَطِيعُ
 بھی کہا جاتا ہے۔
 الطَّوَّاعَةُ: طوع کا اسم مصدر ہے۔
 الطَّوَّاعِيَّةُ: فرماں برداری۔
 الطَّاعُ وَالمَطْوُوعُ وَالمَطْوُوعَةُ: فرمانبردار۔ کہا
 جاتا ہے "هُوَ طَوْعٌ يَدِكُ" یعنی وہ
 تمہارا تابع ہے۔
 فَرَسٌ طَوْعُ العِيَانِ: یعنی نرم و تابعدار
 گھوڑا۔ "عَمَلُهُ طَوْعًا" یعنی اس نے اس

لَسَابِهٌ یعنی ہمارے او پر وہ نہ ڈال جس کی ہمارے اندر وسعت نہ ہو اور ہمارے لئے وہ دشوار ہو۔ دھاگے کی ایک لٹ۔ بالوں کا مٹھا۔ پھولوں کا گلہستہ اور عام لوگ روشن دان کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔

المُطَوَّقَةُ: کھٹے دار کبوتر۔ بوتل جس کی گردن طوق کے مانند ہو۔

طَالَ يَطْوُلُ طَوْلًا: لمبا ہونا..... عَلِيَّهِ: غالب ہونا۔ فخر کرنا۔ احسان کرنا۔

طَوْلَةٌ: لمبا کرنا۔ طَوْلٌ لَهُ: مہلت دینا..... لِلذَّابَةِ: جانور کی رسی ڈھیلی کر دینا۔

تَطْوَلُ تَطْوَلًا: عَلِيَّهِ: احسان کرنا۔

أَطَالَه وَأَطَوْلَهُ إِطَالَةً وَأَطْوَالًا: لمبا کرنا۔

أَطَالَتِ الْعُرَاةُ: لمبے لمبے بچے جننا۔

طَاوَلَهُ مُطَاوَلَةً: نال مٹول کرنا۔ لمبائی یا فضل و بخشش میں غالب ہونا۔

تَطَاوَلُ: دیکھتے ہوئے گردن بلند کرنا.....

تَكَبَّرَ كَرًا: فخر کرنا۔ ظلم کرنا۔ لمبائی ظاہر کرنا.....

عَلِيَّهِ الْعُمْرُ: بڑھنا۔ تَطَاوَلًا: ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔

اسْتَطَالَ اسْتِطَالَةً: طویل ہونا..... عَلِيَّهِ: فضل و احسان کرنا۔ بلند ہو کر دیکھنا.....

عَرَضَهُ: بدنامی کی شہرت دینا۔ کہا جاتا ہے "اسْتَطَالُوا عَلِيًّا لِلْقَوْمِ" یعنی قوم نے جتنا تزل کیا تھا اس سے زیادہ تزل کیا۔

الطَّوْلُ: فضل۔ بخشش۔ قدرت۔ غنا۔

الطَّوْلُ: لمبائی جِ اطْوَالُ.

الطَّوْلُ: السَّمَوِيُّ الْكَوْكَبُ: وہ زاویہ جو آسمانی کرہ کے دو دائروں کے سطح کے درمیان واقع ہونے والا ہے ان میں سے ایک کو کب کے پاس سے اور دوسرا نقطہ اصل کے پاس سے گزرتا ہے۔

الطَّيْلَةُ: حجر۔ کہا جاتا ہے "أَطَالَ اللَّهُ طَيْلَةَ" اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو طویل کرے۔ زمانہ بھر۔

الطَّيْلُ وَالطَّوْلُ وَالطَّوَالُ وَالطَّيَالُ: زمانہ بھر۔

الطَّائِلُ وَالطَّائِلَةُ: قدرت۔ فضل۔ غنا۔ کہا جاتا ہے "بَيْنَهُمْ طَائِلَةٌ" یعنی ان کے درمیان

عداوت ہے جِ "طَوَّائِلُ هَذَا أَمْرٌ لَا طَائِلَ فِيهِ" یہ ایسا امر ہے جس میں کوئی نفع نہیں "مَا هُوَ بِطَائِلٍ أَوْ هُوَ غَيْرُ طَائِلٍ" یعنی گھٹیا ہے اور اس میں مذکورہ مٹوں دونوں برابر ہیں۔

الطَّوِيلُ: لمبا۔ جِ طَوَّالٌ وَطَيَالٌ مَوْنٌ طَوِيلَةٌ جِ طَوِيلَاتٌ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ طَوِيلُ الْبَاعِ" یعنی سخی ہے۔ "هُوَ قَصِيصٌ الْبَاعِ" یعنی بخیل ہے۔

الطَّوِيلُ: اسم تفصيل۔ جِ أَطْوَالُ: مَوْنٌ طَوِيلٌ جِ طَوِيلٌ: الطَّوِيلُ: بلند مرتبہ۔

السَّبْعُ الطَّوِيلُ: سات بڑی سورتیں قرآن پاک کی۔

الطَّوَالُ: لمبا۔ مَوْنٌ طَوَّالَةٌ.

الطَّوَالُ: بہت زیادہ لمبا۔

المَطْوُولُ: رسی۔ جانور کا رسی جِ مَطْوَالٌ.

طَوَّيَ يَطْوِي طَيًّا. الطَّوْبُ: کپڑے کو لپیٹنا.....

اللَّهُ عَمْرَهُ: موت دینا۔ کہا جاتا ہے "طَوَّيَ فُلَانٌ وَهُوَ مَنشُورٌ" جبکہ کسی کا ذکر حسن اور اثر جمیل باقی رہ جائے۔ طَوَّيَ

الْحَدِيثُ: بات چھپانا..... كَتَحَّحَهُ عَلِيٌّ

الْأَمْرَ: پوشیدہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "طَوَّيَ كَتَحَّحَهُ عَنِي" یعنی اس نے مجھ سے اعراض

کیا اور مفارقت اختیار کی۔ وَطَوَّيَ الْبِلَادَ: قطع مسافت کرنا..... الْبَسْرَ: پتھروں سے

کنوئیں کا سن بنانا۔ طَوَّيَ الرُّجُلَ: بھوکے رہنے کا ارادہ کرنا..... السَّبْرُ فُلَانًا: لاغر

کرنا۔

طَوَّيَ (س) طَوَّيَ وَأَطَوَّيَ: بھوکا ہونا۔ صفت طَيَّانٌ وَطَوَّطَاوٍ. مَوْنٌ طَيًّا طَوَّيَةً وَطَاوِيَةً.

تَطَوَّيْتُ الْحَيَّةَ: سانپ کا کنڈلی مارنا۔

إِنطَوَّيَ. الْقَوْمَ عَلِيَّهِ: اکٹھا ہونا..... وَاطْوَى: لپیٹا جانا۔

الطَّوِيُّ: بھوک۔ مٹک۔

الطَّوِيُّ وَالطَّوِيُّ: لپیٹنی ہوئی چیز۔

الطَّيِّ: لپیٹ۔ طَمَن۔ کہا جاتا ہے "الغَمِيُّ لِي طَيِّ قَلْبِي" یعنی گرا ہی اس کے دل کے طَمَن میں ہے۔

السَّطِيَّةُ: حاجت۔ ضمیر۔ نیت۔ لپیٹنے کی نیت۔ گوشہ۔ چھت۔ کہا جاتا ہے "مَضَى لِسَطِيَّتِهِ" یعنی اپنی نیت پر کار بند ہوا "الْقَيْسَةُ

بَطِيَّاتِ الْعِرَاقِ" میں نے اس سے عراق کے اطراف میں ملاقات کی۔

طَاوِي. البَطْنُ: پتلے پیٹ والا۔

الطَّيَّانَةُ: سچ۔ چھت۔ بھجور خشک کرنے کی جگہ۔ ریگستان میں بڑی چٹان۔ زمین کہ جس میں پتھر نہ ہو۔ جِ طَيَّانَاتُ.

الطَّوِيُّ: گیبوں کا پورا۔ رات کا حصہ۔ جِ الاَطْوَاءُ (..... وَالطَّوِيَّةُ): من بنا ہوا

کنواں۔ الطَّوِيَّةُ: نیت۔ ضمیر۔

الاطْوَاءُ: نڈی کی دم کی گرہ۔ واحد طَوَّيٌّ.

المَطْوِيُّ: لپیٹ۔ جِ مَطَاوٍ. مَطَاوِي الْحَيَّةِ: سانپ کی کنڈلی۔

المَطْوِيُّ: جس پر کتا ہوا سوت لپیٹا جائے۔

طَابَ يَطِيْبُ طَيًّا وَطَابًا وَطَيَّةً وَطَيَّابًا: لذیذ ہونا۔ میٹھا ہونا۔ اچھا اور عمدہ ہونا

طَابَتِ النَّفْسُ بَكْدًا: دل خوش ہونا۔ طَابَ عَيْشُهُ: خوش عیش ہونا..... عَنِ الشَّيْءِ نَفْسًا: خوشی سے چھوڑ دینا..... الشَّيْءُ: اچھا کرنا۔

طَابَتِ الْأَرْضُ: گھاس اگانا۔

طَيَّبَ الشَّيْءُ: اچھا کرنا یا اچھا پانا۔ خوشبو لگانا۔ طَيَّبَ خَاطِرَهُ: تسکین دینا۔ مطمئن کر دینا۔

أَطَابَ إِطَابَةَ الشَّيْءِ: اچھا کرنا۔ شیریں کلامی کرنا۔

أَطَيَّبَ إِطْيَابًا. الشَّيْءُ: اچھا پانا۔ طَيَّيْبَةُ مَطَايِبَةٍ: لمبی مذاق کرنا۔ کھیل کود کرنا۔

تَطَيَّبَ: خوشبو لگانا۔

اسْتَطَابَ اسْتِطَابَةً. الْقَوْمَ: شیریں پانی

ماگنا۔ (.....) وَاسْتَطْبَبَ اسْتَطْبَابًا الشَّيْءُ :
 اچھا پانا۔
 الطاب : لذیذ۔ مزے دار۔
 الطیب : خوشبو۔ ج اَطْيَاب و طَيُّوب :
 حلال۔ کہا جاتا ہے "هَذَا طَيْبٌ لَكَ" یعنی
 یہ تمہارے لئے حلال ہے۔ ہر چیز سے
 افضل۔
 الطائبة : شراب۔ مدینہ منورہ کا لقب۔
 الطيبة : حلال۔ طيبة الخمر : صاف
 شراب۔ کہا جاتا ہے "فَعَلْتُ ذَلِكَ
 بِطَيْبَةٍ" یعنی میں نے اس کو رضامندی سے کیا
 کسی نے مجھے مجبور نہیں کیا۔
 الطيَّاب : بہت زیادہ پاکیزہ۔
 الاطياب : اسم تفصیل ج اَطْيَاب مَوْت
 طُوْبِي ج طُوْبِيَات.
 الطوبى : رشک۔ سعادت۔ خیر۔
 الطيب : پاکیزہ۔ اچھا۔ حلال۔ مَوْت طَيْبَةٍ
 ج طَيِّبَات و طُوْبِي : کہا جاتا ہے "كَلِمَةٌ
 طَيِّبَةٌ" پاکیزہ کلمہ جس میں کوئی کبروہ بات نہ
 ہو۔ "بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ" مامون شہر جس میں برکت
 زیادہ ہو۔
 الاطياب و المصطاب. من الشئ : عمدہ
 اشیاء۔
 شَرَابٌ مُطَيَّبٌ : عمدہ شراب جس کے پینے
 سے دل خوش ہو۔
 طَاخٌ يَطِيخُ طَيِّحًا : بمعنی طَاخٌ يَطْوُخُ
 طَوْحًا یعنی ہلاک ہونا۔ سرگرداں پھرنا۔
 طَيِّحٌ : ہلاک کرنا..... الشئ : ضائع کرنا۔
 اَطَاخَهُ : ہلاک کرنا۔
 تَطَايَحَ الشئ : بکھرنا۔
 الطيِّحة : تباہی۔ کہا جاتا ہے "أَصَابَتْهُمْ
 طَيِّحَةٌ" یعنی ایسے امور پیش آئے جس نے
 تفریق کرادی۔ "و طَوَّحْتَهُمْ طَيِّحَاتٍ"
 یعنی ان کو حوادث نے ہلاک کر دیا۔
 طَاخٌ يَطِيخُ طَيِّحًا : بُرے کام سے آلودہ
 ہونا۔ نکمہ کرنا۔ باطل میں شہک ہونا۔
 الاَمْرُ : کام کو بگاڑ دینا۔

طَاخَهُ و طَيِّحَهُ : قبیح بات میں آلودہ کرنا۔
 طَيِّحٌ أَصْحَابُهُ : گالی دینا۔
 تَطَيِّحٌ : برائی سے آلودہ ہونا۔
 الطيِّحة : قندہ (.....) وَالطَّايِغُ وَالطَّيَّاحُ :
 بے برکت۔ بے وقوف۔
 طَارَ يَطِيرُ طَيْرًا و طَيْرَانًا و طَيْرُورَةً الطَّايِرُ
 : پرندہ کا اڑنا..... صَيْئَةٌ : مشہور ہونا۔
 الشَّعْرُ : بال لیے ہونا..... بِكَذَا : سابق
 ہونا۔
 الِشْيَءُ كَذَا : دوڑنا۔ کہا جاتا ہے "طَارَ
 طَائِرُهُ" وہ غضبناک ہوا۔ طیش میں آ کر
 جلد بازی کرنا۔
 طَيْرَةٌ و طَيْرِيَّةٌ و اَطَارَةٌ و اَطَارَةٌ و طَائِرَةٌ
 مُطَائِرَةٌ : اڑانا۔ اَطَارَ و طَيَّرَ المَالَ : تقسیم
 کرنا۔ طَيْرَ نَوْمَهُ : نیند اڑا دینا۔
 اَطِيرُ و تَطِيرُ. بِالشئِ و مِنْهُ : بدقالی لینا۔
 تَطَايَرُ : متفرق ہونا..... الشئ : لہا ہونا۔
 السَّحَابُ فِي السَّمَاءِ : بادل کا چاروں
 طرف گھر جانا۔
 اِنطَارَ الشئ : پھینکا۔
 اِسْتَطَارَ اِسْتَطَارَةً الشئ : متفرق ہونا۔
 منتشر ہونا..... الحَايِطُ : دیوار کا پھینکا.....
 السَّيْفُ : جلدی سے سونمتا۔ الطيِّرُ : پرندے
 کو اڑانا۔
 اُسْطَيِّرُ : خوفزدہ ہونا۔ جلدی سے لے جایا
 جانا..... الصَّدْعُ فِي الحَايِطِ : دیوار میں
 پھین ظاہر ہونا..... السُّرْسُ : گھوڑے کا تیز
 دوڑنا۔
 الطَّايِرُ : فا۔ پرندہ ج طيِّر اور طَيُّور
 و اَطْيَارُ : جمع الجمع نام ایک ستارے کا جس کو
 نسر طائر بھی کہتے ہیں جس سے اچھا یا برا
 شگون لیں۔ نصیب۔ روزی۔ دماغ۔ کہا
 جاتا ہے "هُوَ مَيْمُونُ الطَّايِرِ" وہ مبارک
 چہرے والا ہے۔ "سِرُّ عَلِيٍّ الطَّايِرُ
 الْمَيْمُونُ" مبارک شگون پر سخر کرو (مسافر
 کے لئے دعا ہے) "هُوَ سَائِجِنُ الطَّايِرِ"
 یعنی حلیم صاحبِ وقار ہے "طَارَ طَائِرُ

فُلَانٌ" جبکہ غضبناک ہو یا جلد بازی کرے۔
 الطيِّر : جمع طائر اور کبھی واحد پر بھی بولا جاتا
 ہے اسم ہے تطير : کا بمعنی بد شگون اور اسی
 سے عرب کا قول ہے "لَا طَيْرٌ اِلَّا طَيْرُ اللّٰهِ"
 جیسا اَلْاَمْرُ اِلَّا اَمْرُ اللّٰهِ اور طَيْرُ اللّٰهِ لَا
 طَيْرُكَ : جیسا صَبَاحُ اللّٰهِ لَا صَبَاحُكَ
 اور کہا جاتا ہے "كَمَانَ عَلِيٍّ زُرُوسَهُمُ
 الطيِّرُ" یعنی وہ بیت کی وجہ سے بالکل ساکن
 اور خاموش ہے اور اصل اس کی یہ ہے کہ کوا
 اُونٹ کے سر پر بیٹھتا ہے اور چیخڑی چتا ہے
 جس سے اُونٹ کو آرام ملتا ہے اور وہ اس ڈر
 سے کہ کوا اڑ نہ جائے بالکل حرکت نہیں
 کرتا۔ "وَأَزْجَرَ أَحْنَاءَ طَيْرِكَ" دور کر اپنی
 خفت و غصہ کو۔
 الطيِّرة و الطيِّرة : بد شگون جس سے لیا
 جائے۔
 الطيِّرة و الطيِّرة : طيش۔ ہلا پن۔ اوچھا
 پن۔ کہا جاتا ہے "إِسَّاكٌ و طَيْرَاتُ
 السَّيَابِ" اپنے آپ کو جوانی کے طيش سے
 بچاؤ۔
 الطويِّرُ : طير : کی تصفیر۔
 الطيِّارُ : منتشر۔ ترازو کی زبان۔ سکھانے
 کی ترازو۔
 الطيِّارَةُ : ہوائی جہاز۔ اس کی کئی اقسام ہیں :
 (۱) طَائِرَةٌ رُشَابٌ : سوار یوں کے لئے ہوائی
 جہاز اندرونی و بیرونی سفر کے لئے۔
 (۲) طَائِرَةٌ حَرْبِيَّةٌ : ہوائی جہاز۔ اس
 کی کئی اقسام ہیں۔
 (۱) طَائِرَةٌ طَرَارٌ : دشمن کو دھکیلنے کے لئے۔
 (۲) الطائيرة انفاعة : زمین پر روشنی چھوڑنے
 والا جہاز۔
 (۳) الطائيرة النافورية : تیز ترین ہوائی
 جہاز۔
 (۴) الطائيرة القابضة : دشمن کے ہوائی جہاز
 کو گرفتار (شکار) کرنے والا ہوائی جہاز۔
 (۵) طائيرة الانفاض : دشمن کے ہوائی جہاز
 کو مار گرانے والا جہاز۔

<p>عَلَى الْخَيْرِ: اللہ کا کسی کو خیر پر پیدا کرنا۔ الطَّيْمَاءُ: جبلت۔ طبیعت۔</p>	<p>أَطَاشَ إِطَاشَةً. السَّهْمُ عَنِ الْفَرَضِ: تیر کا نشانہ سے خطا کر دینا۔</p>	<p>(۶) الْقَلْبَعَةُ الطَّائِرَةُ: دشمن کے علاقوں پر بیماری کرنے والا بڑا ہوائی جہاز۔</p>
<p>طَانٌ يَطِينُ طَيْئًا وَطَيْنَ الْحَانِطُ: دیوار کو گارے سے لپٹنا۔ طَانٌ الْحَنْبَابُ: خط پر مہر لگانا۔ طَانَهُ اللَّهُ عَلَى الْخَيْرِ: اللہ کا خیر پر پیدا کرنا۔</p>	<p>الطَّيَّاشُ: بمعنی طَائِشٌ: جو سخت عقل کی وجہ سے ایک طریقے پر بندھے۔ الطَّيَّاشَانُ: سکی۔ او چھاپن۔</p>	<p>الطَّيَّارُ وَالْمُطَّارُ. مِنَ الْخَيْلِ: تیز خاطر چست چالاک گھوڑا۔ أَرْضٌ مُطَّارٌ: کثرت سے پرندوں والی زمین۔</p>
<p>تَطِينٌ: گارے سے لپٹا جانا۔ گارے سے تھمرنا۔ لت پت ہونا۔</p>	<p>طَاعَ يَطِيعُ طَيْعًا: بمعنی طَاعَ يَطُوعُ طَوْعًا. طَافَ يَطِيفُ طَيْفًا وَمَطَافًا الْخَيْالُ: خواب میں خیال آنا۔</p>	<p>الطَّيَّارَةُ: مؤنث طَيَّارٌ: ہوائی جہاز۔ الْمَطَّارُ: اڑنے کی جگہ۔</p>
<p>الطَّيْنِ وَالطَّيْنَةِ: گارا۔ مٹی اور چونہ یا ریت چونہ ملا ہوا الطَّيْنَةُ: گارے کا ایک حصہ۔</p>	<p>طَيْفٌ تَطِيفًا وَأَطَافٌ إِطَافَةً وَتَطِيفٌ تَطِيفًا: بہت پھرنا۔</p>	<p>الْمُطَّيِّرُ: مفع۔ پھٹا ہوا۔ ٹوٹا ہوا۔ ایک قسم کی چادر۔</p>
<p>خَلَقَتْ جِبِلَّتٌ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ يَأْبَسُ الطَّيْنَةَ" وہ سخت دل اور خشک مزاج ہے۔ "لَهُ طَيْبَةٌ طَيْبَةٌ" اس کی طبیعت نرم ہے۔</p>	<p>الطَّيْفُ: خیال و خواب میں آئے۔ غضب۔ جنون۔</p>	<p>الْمُسْتَطِيرُ: فاع۔ پھیلنے والا۔ کہا جاتا ہے "ضَبْحٌ مُسْتَطِيرٌ" یعنی صبح منتشر اور ایسا ہی بجلی بڑھا ہوا اور شر کے لئے مستعمل ہے۔</p>
<p>مَكَانٌ طَانٌ: بہت گارے کی جگہ۔ الطَّيَّانَةُ: گارا بنانے کا پیشہ۔ الطَّيَّانُ: گارا بنانے والا۔</p>	<p>الطَّيْفُ: وہ صورت جو موٹور میں سفید روشنی گزرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے مختلف رنگ سرخ، مالٹا، زرد، سبز، بنفشی اور صورت کے ذریعے گیس کی تلاش میں سہولت حاصل ہوتی ہے۔</p>	<p>طَاسٌ يَطِيسُ طَيْسًا الشَّيْءُ: زیادہ ہونا۔ الطَّيْسُ: عدد کثیر۔ مٹی۔ ہر وہ مخلوق جس کی نسل بہت ہوتی ہو۔ جیسے مچھلی۔ چیونٹی۔</p>
<p>الطَّيُّونُ: ایک بد بودار پودا جس کے پھول زرد ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک کیڑے مار دوائی بھی تیار کی جاتی ہے۔</p>	<p>طَامٌ يَطِيمُ طَيْمًا: نیکو کار ہونا..... اللّٰهُ فَلَانَا</p>	<p>طَاشٌ يَطِيشُ طَيْشًا: او چھاپنا۔ عقل زائل ہونا..... السَّهْمُ عَنِ الْفَرَضِ: تیر کا نشانہ سے خطا کرنا۔ صفت طَائِشٌ۔</p>



ظ

ظ: الظَاءُ: ستمرواں حرف بنیادی حروف میں سے۔ یہ لٹوی حروف میں سے ہے۔ یعنی حلق کا کو اس کا مخرج ہے۔
ظَابٌ (ن) ظَابُنَا: نکاح کرنا۔ ظلم کرنا۔ شور کرنا..... النَّيْسُ: بکری کا میاں۔
ظَاءٌ بِئِهْ مُظَاءٌ بَهْ: سالی سے نکاح کرنا۔ کہا جاتا ہے "تَزَوَّجَابَا الْمُظَاءَ بَهْ" یعنی دونوں ہم زلف ہوئے۔

تَظَاءَ بَا: ہم زلف ہونا۔
الظَّابُ: مٹس۔ ہم زلف۔ ساڑھو۔ ج ظُوبٌ وَأَطُوبٌ۔

ظَارٌ (ف) ظَارًا وَظَنَارًا وَأَظَارًا وَأَظَارًا وَظَاءٌ وَمُظَاءٌ زَهْ. النَّاقَةُ أَوْ الْمَرْأَةُ عَلِيٌّ وَلَيْدٌ غَيْرُهَا: مہربان کرانا۔ فَظَارَاتٍ وَأَظَارَاتٍ: مہربان ہونا۔ اور صفت "ظُوُورٌ وَظُوُورَةٌ جَ إِظَارٌ وَظُوَارٌ. ظَائِرَةٌ أَلِيٌّ كَذَا: مہربان کرانا۔ إِظَارٌ عَلِيٌّ عَذْوَةٌ: حملہ کرنا۔ ظَارَةٌ وَظَارُورَةٌ وَأَظَارَةٌ عَلِيٌّ كَذَا: مہربان کرنا۔ ظَاءٌ زَهْ عَلِيٌّ الْأَمْرُ: طلب کرنا یا مجبور کرنا۔ ظَاءٌ زَالِجٌ: دایہ بنانا۔ ظَاءٌ زَبْتُ الْمَرْأَةُ: دایہ گری کرنا۔

أَظَارٌ. لِوَلَدِهِ ظَنَارًا: لڑکے کے لئے دایہ مقرر کرنا۔

الظُّنْرُ: غیر کے بیچ پر مہربانی کرنے والی۔ غیر کے بیچ کو دودھ پلانے والی جَ أَظُورٌ وَأَظَارٌ وَظُوُورٌ وَظُوُورَةٌ وَظُوَارٌ. ظُنْرٌ الْقَصْرُ: ستون۔

الظُّنْرَةُ: جھونپی۔ کھبا۔

الظُّورَةُ: دایہ۔ دانی پلائی۔

ظَاءٌ مَهْ مُظَاءٌ مَهْ وَتَظَاءٌ مَا تَظَاوُمًا: ہم زلف بنا۔

الظَّامُ: ہم زلف۔ ساڑھو۔
الظَّبَّةُ: تلوار وغیرہ کی دھار۔ جَ ظَبَاتٌ وَظَبِيٌّ وَظَبُونٌ وَظَبُونٌ وَأَظَبٌ۔

أَظْبِي الْمَكَانُ: بہت ہرنیوں والی ہونا۔
الظَّبِيُّ: ہرن زیادہ جَ ظَبَاءٌ وَأَظَبٌ وَظَبِيٌّ وَظَبِيَّاتٌ۔

صحت جسم کے متعلق عرب کا قول ہے "بہ ذاء الظبئی" یعنی اسے کوئی مرض نہیں اس لئے کہ ہرن کو سوائے مرض الموت کے کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ "إِذَا آتَيْتَهُمْ فَارْبِضْ فِي دَارِهِمْ ظَبِيًّا" یعنی جب تم کسی قوم کے پاس جاؤ تو ہرن بن کر اقامت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہرن کو کوئی شک ہوتا ہے تو وہ نہیں ٹھہرتا اسی طرح تم بھی شک ہونے پر چل دو۔

الظَّبِيَّةُ: ہرنی۔ بکری۔ گائے۔ عورت اور اونٹنی کی اندام نہانی۔ جَ ظَبَاءٌ وَظَبِيَّاتٌ. الظَّبِيَّةُ: وادی کا موڑ۔ ہرن کے بال دار چڑے کا چھوٹا تھیلہ۔

أَرْضٌ مَظْبَابَةٌ: بہت ہرن والی سرزمین۔

ظَرْ (ن) مَظْرَةٌ: دھاردار پتھر توڑنا۔ النَّاقَةُ: اونٹنی کو دھاری دار پتھر سے ذبح کرنا۔

أَظْرٌ: دھاردار پتھروں کی زمین میں واقع ہونا۔

..... الْمَسْكَانُ: بہت دھاردار پتھروں والا

ہونا۔

الظَّرُّ وَالظَّرَزُ وَالظَّرَزَةُ: پتھر۔ دھاردار پتھر جَ ظَرَّانٌ وَظَرَّانٌ وَظَرَارٌ وَأَظْرَةٌ۔

الظَّرَّانُ: چتھاق کے کٹاپے جو زمانہ قدیم میں نیزے اور بھالے اور کلباڑے وغیرہ کی شکل پر بنائے جاتے تھے اور دیا سلائی کے بنانے سے پہلے اسی کا استعمال کیا کرتے تھے۔ "وَالظُّورُ الظَّرِيُّ وَالظَّرَّانِيُّ" مذکور چتھاق کے استعمال کا زمانہ۔

أَرْضٌ ظَرِيْرٌ وَمَظْرَةٌ: بہت چتھاق والی سرزمین۔ الظَّرِيْرُ: رہتائی کا نشان۔ جَ ظَرَارٌ وَأَظْرَةٌ وَظَرَّانٌ۔

المِظْرَةُ: چتھاق۔ جَ مَظَارٌ۔
ظَرِبَ (س) ظَرَبْنَا. بَكْدًا: چپکنا۔

الظَّرِبُ: ابھرا ہوا تیز پتھر۔ چھوٹا ٹیلہ۔ جَ ظَرَابٌ وَأَظْرُبٌ۔

الظَّرْبُ مِنَ الرِّجَالِ: چھوٹے قد کا موٹا۔

الظَّرِبَانُ وَالظَّرِبَاءُ: ٹہلی کے برابر خاستری رنگ کا سیاہی مائل بدبودار جانور۔ جَ ظَرَّابِيٌّ وَظَرَّابِيْنٌ: کہا جاتا ہے "فَسَابِيْنُهُمْ الظَّرِبَانُ" یعنی ان میں نا افاق ہوگئی۔

الظَّرْبِيُّ وَالظَّرِبَاءُ. ظَرَبَانٌ: کا اسم جمع۔

الْأَظْرَبُ: نواجذ کے بیچے کے چار دائرے أَظْرَابُ اللَّجَامِ: لگام کے لوہے کے اطراف کی گرہ۔

ظَرْفٌ (ك) ظَرْفًا وَظَرْفًا: خوش شکل ہونا۔ چالاک ہونا۔ ذہین ہونا۔ صفت ظَرِيفٌ: جَ ظَرْفَاءٌ وَظَرْافٌ وَظَرْفٌ

ہونا۔

..... الْمَسْكَانُ: بہت دھاردار پتھروں والا

و ظُرُوفٌ وَظَرِيفُونَ: مَوْنٌ ظَرِيفَةٌ جَ ظَرِيفَاتٍ وَظَرِيفٍ. ظَرَفَهُ ظَرِيفٌ: تَرَبُّوا. کہا جاتا ہے "ظَرَافِي ظَرَفْتَهُ".	الظُّعُونُ وَالظُّعُونَةُ: بار بردار اُونٹ۔ ہودہ اٹھانے والا اُونٹ ج ظُعُن.
أَطْرَفٌ: ظَرِيفٌ أَوْلَادٌ يَبْدَأُ بِهَا... الْمَتَاعُ: بَرْتَنٌ يَتَنَا. تَطْرَفٌ وَتَطْرَافٌ: ظَرْفٌ بَنَانٌ. اسْتَطْرَفٌ: ظَرِيفٌ طَلَبٌ كَرَانٌ... ظَرِيفٌ كَجَهْمَانٍ ظَرِيفٌ يَانَانٌ.	الظُّعِينَةُ: ہودہ ج ظُعَانٌ وَظُعْنٌ وَظُعْنٌ جَ أَظْعَانٌ وَظُعْنَاتٌ: بیوی یا عورت جب تک ہودے میں رہے۔ یا مطلقاً عورت۔ کہا جاتا ہے "هُؤُلَاءِ ظُعَانِيَّةٌ" یہ اس کی عورتیں ہیں۔ المِظْعَانُ: مِنَ النَّخِيلِ وَالنُّوقِ: نَزْمٌ جَالٍ جِلْنِ وَالْأَكْهَوِزُ أَيْ أَوْفِي.
الظُّرْفُ: دَانَانِيٌّ - حَذَاقَتٌ - فَوَقِيْتُ - بَرْتَنٌ - كَمَا جَا تَا تَا "مِنَ الظُّرْفِ جُوْدُ الْمُهْدِي بِالسُّرْفِ" پہلا ظرف یعنی داناتی اور دوسرا بمعنی برتن جس میں ہدیہ بھیجا جائے اور عوام مشکیزہ کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ الظرف: ہر وہ چیز جس میں کوئی دوسری چیز رہے اور اسی سے ہے "ظُرُوفُ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ" اور کہا جاتا ہے "هُوَ نَقِي الظرف" یعنی وہ امین ہے "زَائِنَةُ بِظُرْفِهِ" میں نے اسی کو دیکھا ہے۔	ظَفْرَةٌ (ض) ظَفْرًا: چہرے پر ناخن مارنا۔ ناخن توڑنا۔ ظَفِيرٌ (س) ظَفِيرًا وَظَفِيرُ الْمَطْلُوبِ وَبِهِ وَعَلَيْهِ: کامیاب ہونا۔ غالب ہونا۔ ظَفْرُوثٌ غَيْبَةٌ: ناخند ہونا۔ آکھ کی صفت ظَفِيرَةٌ اور شخص کی مَظْفُورٌ۔ ظَفْرَةٌ: کامیابی کی دعا کرنا۔ ظَفْرُ الشَّيْءِ: کسی چیز میں ناخن چھبونا۔ السُّوْبُ: کپڑے پر خوشبو لگانا۔ الْجَلْدُ: کھال کو لمانا۔ ظَفْرَةٌ وَأظْفَرُهُ بَعْدُوهُ: دُخْنٌ بِرُكَا مِيَابٍ كَرَانَا - مَنَدَرَانَا - أَظْفَرُ فَلَانًا: منہ پر ناخن مارنا۔ تَطَاظَرُ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کی مدد کرنا۔
الْمَسْطَرُوفُ: مَنَعٌ - بَرْتَنٌ مِثْلُ جَوْجِرٍ هُوَ - كَمَا جَا تَا "بَعَثَ بِالرَّسَائِلِ مَسْطَرُوفَةً". ظَرَعِي (ض) ظَرِينَا. الْمَاءُ: پانی کا جاری ہونا۔ ظَرِي (س) ظَرِي. الْغَلَامُ: لڑکے کا زریک ہونا۔	ظَفْرَةٌ: کامیابی کی دعا کرنا۔ ظَفْرُ الشَّيْءِ: کسی چیز میں ناخن چھبونا۔ السُّوْبُ: کپڑے پر خوشبو لگانا۔ الْجَلْدُ: کھال کو لمانا۔ ظَفْرَةٌ وَأظْفَرُهُ بَعْدُوهُ: دُخْنٌ بِرُكَا مِيَابٍ كَرَانَا - مَنَدَرَانَا - أَظْفَرُ فَلَانًا: منہ پر ناخن مارنا۔ تَطَاظَرُ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کی مدد کرنا۔
إِظْرُوزِي إِظْرِيَاءُ: پیت پھولنا۔ الظَّارِي: قَا - كَا تَا کھانے والا۔ الظَّرُوزِي: زریک۔ عَقْلٌ مَنَدَرٌ ظَرِيفٌ۔	الظُّفْرُ وَالظُّفْرُ وَالظُّفْرُ: ناخن جَ أَظْفَارُ جَ أَظْفِيرٌ: کہا جاتا ہے "مَسَابِقِي فِي الْمَقَارِ ظُفْرٌ" یعنی گھر میں کوئی باقی نہیں رہا "وَرَأَيْتُهُ بِظُفْرِهِ" یعنی میں نے اس کو دیکھا "قَلَمٌ أَظْفَارُهُ عَنِ أَذَى النَّاسِ" یعنی لوگوں کو تکلیف پہنچانی کم کر دی یا بالکل چھوڑ دیا۔
ظَعْنٌ (ف) ظَعْنًا وَظَعْنًا وَظَعْنًا مَظْعَانًا: كَوَاجٍ كَرَانَا "ظَعْنُوا عَنُ دِيَارِهِمْ" وہ لوگ اپنے ملکوں سے کوچ کر گئے۔ أَظْعَنُ: كَوَاجٍ كَرَانَا - مَنَدَرَانَا۔	و "كَسَرُ أَظْفَارُهُ فِي فَلَانٍ" یعنی نیت کی۔ "ظُفْرُ الْقَيْطِ وَظُفْرُ النَّسْرِ وَظُفْرُ الْعُقَابِ" نباتات کی قسمیں۔
إِظْعَانٌ الْهُوْدُجُ: ہودے میں سوار ہونا۔	الظُّفْرُ وَالظُّفْرَةُ: ناخند (آکھ کی ایک بیماری) الظُّفْرَةُ: ظافر کی جمع ہے۔
الظُّعَانُ وَالظُّعُونُ وَالظُّعَامُ: ہودہ یا ندھنے کی رسی۔	الظُّفْرُ وَالظُّفْرُ وَالظُّفْرُ: ہر معاملہ میں کامیاب۔
	الْأظْفَرُ: لمبے چوڑے ناخن والا۔
	الْأظْفَارُ: ناخن کے مشابہ ایک خوشبودار چیز۔
	اس کا واحد نہیں۔ أَظْفَارُ النَّوْبِ: کپڑے کی ٹکٹیں۔ الْأظْفَارُ: نسر طائر کے آگے کے
استارے۔	
المُظْفَرُ وَالْمِظْفَارُ: ہر معاملہ میں کامیاب۔	
ظَلٌّ (س) ظَلًّا وَظُلُولًا: يَفْعَلُ كَذَا: ہمیشہ رہتا۔ تم کہہ سکتے ہو "ظَلِلْتُ وَظَلْتُ وَظَلْتُ"۔	
ظَلٌّ ظَلَالَةٌ: یوم: دن کا سایہ دار ہونا۔ الشئی: لمبا ہونا۔	
ظَلَّةٌ: سایہ ڈالنا۔ ظَلَّلَ بِالسُّوْبِ: دھرکانے کے لئے حرکت دینا۔	
أظلل. یوم: دن کا سایہ دار ہونا ہ: سایہ ڈالنا۔ اپنی پناہ میں لینا۔ أظلل الأمر فلانًا: پہنچ جانا۔ قریب ہونا اور اسی سے ہے۔	
أظلیک الشهر: یعنی مہینہ آ گیا۔ تظلل. بِالسُّجْرَةِ: درخت کے سایہ میں بیٹھنا۔	
إستظل بالظل: سایہ کے نیچے بیٹھنا۔ من الشئی: سایہ لینا۔ الحزم: انور کی شاخ کا گتہ جانا۔ العیون: چشمے کے پانی کا نیچے آنا۔ الشمس: آفتاب کا بادل میں چھپ جانا۔	
الظل: سایہ ج ظلل و ظلل و ظلل: عزت۔ آرام و آسودگی۔ ظل من الليل: رات کا حصہ یا اس کی سیاہی۔ من القیظ: گرمی کی شدت۔ من السُّوْبِ: کپڑے کا روال۔	
ظل الشباب أو الشتاء: جوانی یا جاڑے کی ابتداء۔ کہا جاتا ہے "بقی عنیدی ظل الشتاء" وہ میرے پاس تمام دن رہا اور یہ اس لئے کہ ظل کا بقا روز وال شے کے زوال و بقا پر موقوف ہے۔ "وهو في ظله" یعنی وہ اس کی پناہ میں ہے "ومشيت على ظلي أو انتعلت ظلي" میں چلا اس حال میں کہ دوپہر ہو چکی تھی اس لئے میرا سایہ نہیں تھا۔	
و "كان ذلك اليوم أطول من ظل القنطرة" یعنی یہ دن نیزے کے سائے سے بھی زیادہ طویل تھا۔ عرب نیزہ کے سائے کو بہت زیادہ طویل سمجھتے تھے۔ "فلان يساري	

زَجَلَّ ظَلِيفُ النَّفْسِ: اخلاقِ رذیلہ سے پاک صاف۔ کہا جاتا ہے "أَخَذَهُ بِظَلْفِهِ وَبِظَلْفَيْهِ وَبِظَلْفَيْهِ وَبِظَلْفَيْهِ" یعنی سب کچھ لے لیا کچھ نہیں چھوڑا۔

الظُّلْفَاءُ: ہموار لمبا پتھر۔

الْأُظْلُوفَةُ: تیز پتھر والی زمین جِ أَظْلَيفٍ.

ظَلَمَ (ض) ظَلَمًا وَظَلَمًا وَمُظْلَمَةً: بے موعوع رکھنا..... ہ: ظلم کرنا..... ہ حَقُّهُ: گھنٹا نا..... الأَرْضُ: بے موعوع کھودنا..... الطَّرِيقُ:

راستہ سے ہٹ جانا۔ کہا جاتا ہے "مَا ظَلَمَكَ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا" یعنی تم کو کس چیز نے ایسا کرنے سے منع کیا۔ ظَلَمَ البَعِيرُ: بغیر کسی مرض اور علت کے ذبح کرنا اور ہر وہ کام جس کو وقت سے پہلے کیا جائے اس پر ظلم کا اطلاق ہوتا ہے۔

ظَلِمَ (س) ظَلَمًا وَأَظْلَمَ اللَّيْلُ: رات کا تاریک ہونا۔ أَظْلَمَ اللَّيْلُ اللَّيْلُ: رات کو تاریک کرنا۔ أَظْلَمَ الرَّجُلُ: تاریکی میں داخل ہونا۔ مظلوم ہونا۔

ظَلَمَهُ: ظلم کی طرف نسبت کرنا..... ہ الحَاكِمُ: ظلم کی شکایت دور کرنا۔ کہا جاتا ہے "تَظَلَّمَ فَلَانَ إِلَى الْحَاكِمِ مِنْ فَلَانَ فَلْظَلَمَهُ" یعنی فلاں نے فلاں کی حاکم سے ظلم کی شکایت کی اس نے شکایت دُور کر دی۔

تَظَلَّمَ مِنْهُ: ظلم کی شکایت کرنا..... ہ حَقُّهُ: گھنٹا دینا..... الرَّجُلُ: ظلم پر صبر کرنا۔ کہا جاتا ہے "ظَلَمْتُهُ فَتَظَلَّمْتُ" میں نے اس پر ظلم کیا اس نے صبر کیا۔

تَظَلَّمَ الْقَوْمُ: بعض کا بعض پر ظلم کرنا۔

أَظْلَمَ وَأَنْظَلَمَ: ظلم برداشت کرنا۔

الظُّلْمُ: برف۔ دانتوں کی چمک۔ جِ ظُلُومٍ.

الظُّلْمُ: بے موعوع رکھنا۔ حق گھنٹا نا۔ ظلم۔

الظُّلْمُ: بدن۔ پہاڑ۔ جِ ظُلُومٍ.

لَيْلٌ ظَلِمَ: بہت تاریک رات۔

الظُّلْمَةُ وَالظُّلْمَةُ: تاریکی جِ ظُلْمٍ

وَالظُّلْمَاتُ وَالظُّلْمَاتُ: ظلمتات.

الظُّلْمُ: قمری مینے کی انیسویں، بیسویں

چڑھنے والا اگر لنگڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے نفس کے ساتھ نرمی کرتا ہے۔

الظَّلْعُ: لنگڑا پن۔

الظَّالِعُ: فاقا۔ ٹھکنے والا۔ متمم (مذکر مؤنث) اور مؤنث کے لئے ظالِعَةٌ بھی بولا جاتا ہے جِ

ظُلْعٍ.

الظَّلَاعُ: جانور کی ٹانگ میں بیماری جو ٹھکنے سے نہ ہو۔

ظَلَّفَهُ (ن) ظَلْفًا: کھر پر لگنا۔ ظَلَّفَ نَفْسَهُ عَنِ الشَّيْءِ: باز رکھنا۔

ظَلِيفٌ (ن ض) ظَلْفًا. الْقَوْمُ: قوم کے نشان قدم پر چلنا۔ ظَلَّفَ وَظَلَّفَ مَظَالِفَةَ آتَرَةٍ: قدم کے نشانات کو مٹا دینا۔

ظَلِيفَتُ (س) ظَلْفًا الأَرْضُ: سخت ہونا..... مَعِيشَةٌ فَلَانٍ: تکلیف دہ ہونا..... نَفْسُهُ: رک

جانا۔

ظَلِيفَ الرَّجُلُ: سخت زمین میں روکا جانا تاکہ کوئی نشان قدم کا پتہ نہ لگ سکے۔

ظَلَّفَهُ. عَنْ كَذَا: دُور کرنا۔ ظَلَّفَ عَلَيَّ كَذَا: زیادہ کرنا۔

أَظْلَفَهُ: دُور کرنا۔

إِظْلَفَ وَتَظْلَفَ: سخت پتھر لی زمین میں پڑنا۔

الظِّلْفُ: مٹھے ہوئے کھر۔ جِ ظُلُوفٍ وَأَخْلَافٍ: کہا جاتا ہے "جَاءَهُ وَاعْلَى ظَلْفِهِ" یعنی اس کے نشان قدم پر آئے۔ الظِّلْفُ: حاجت و تنگی عیش۔ سخت زندگی۔

الظِّلْفُ: باطل۔ مباح۔ بے کار۔ کہا جاتا ہے "ذَهَبَ دَمَهُ ظَلْفًا وَظَلْفًا وَظَلْفًا" یعنی اس کا خون بے کار گیا۔

الظِّلْفُ وَالظِّلْفُ: پانی اور کچھڑے سے بلند جگہ "زَجَلَّ ظَلِيفُ النَّفْسِ: اوصافِ ذمیرہ سے پاک صاف۔

أَرْضٌ ظَلِيفَةٌ وَظَلِيفَةٌ وَظَلِيفَةٌ: سخت پتھر لی زمین۔

الظِّلِيفُ: بد حال۔ ذلیل۔ سخت مشکل کام جِ ظَلْفٌ ظَلْفٌ

ظُلٌّ زَائِبٌ" بولا کرتے تھے جب کوئی تکبر کرتا تھا۔ مُلَاعِبٌ ظَلِيبٌ اَوْ خَاطِفٌ ظَلِيبٌ" ایک پرندہ کا نام ہے۔

الظِّلُّ: درخت کے نیچے کا پانی جس کو دھوپ نہ لگے۔

الظَّلَّةُ: اسمِ مرآة۔ اقامت۔

الظَّلَّةُ: تنگ سائبان۔ ہر وہ کہ جس کی سردی و گرمی میں پناہ لیں۔ ہر سایہ دار جِ ظِلِّسٍ وَظِلَالٍ.

الظِّلَالُ وَالظِّلَالُ وَالظَّلَّةُ وَالظِّلَالَةُ: ہر سایہ دار۔ ظِلَالُ الْبَحْرِ: سمندر کی موجیں۔ الظِّلِيلُ: سایہ دار۔ ہمیشہ سایہ والا۔

الظِّلِيلَةُ: مؤنث ظِّلِيلُ: زیادہ درختوں کا باغ۔ وادی کے نچلے حصے۔ پانی کا چشمہ۔

المِظْلَّةُ وَالْمِظْلَّةُ: جس سے سایہ لیا جائے۔ بڑا خیر۔ چھتری۔ جِ مِظْطَالٍ. عِيدُ

المِظْطَالِ: بیہودوں کی عید جس میں درخت کے پتوں سے خیمے بناتے ہیں اور مصر کی آزادی کی یادگار میں ان خیموں میں چند روز قیام کرتے ہیں۔

يَوْمٌ مُظِلٌّ: سائے والا دن۔

ظَلْظَلٌ: شبتیاں۔

ظَلَعٌ (ف) ظَلَعًا. البَعِيرُ: اونٹ کا چلنے میں لنگڑا نا۔ مَعْتٌ ظَالِعٌ. ظَلَعَتْ بِهِمُ الأَرْضُ: زمین تنگ ہونا۔

الظَّلْعُ: عیب۔ کہا جاتا ہے "إِزْنَعُ عَلَيَّ ظَلْعِيكُ" یعنی تم ضعیف ہو جس چیز کی طاقت نہیں رکھتے ہو اس سے رُک جاؤ۔ "لَا يَزْبَعُ عَلَيَّ ظَلْعِيكُ مَنْ لَيْسَ يَحْزَنُهُ أَمْرُكُ"

یعنی تمہاری شان کا اہتمام وہی کرے گا جو تمہارا غم خوار ہوگا۔ "إِزْقُ عَلَيَّ ظَلْعِيكُ" اور بھی ہمزہ کے ساتھ "إِزْقُ" کہا جاتا ہے یعنی پہلے اپنی حالت کو درست کر دیا اتنی ہی تکلیف اٹھاؤ جنسی کی طاقت رکھتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی حد سے آگے مت بڑھو اور اپنی کوتاہی و عاجزی کو دیکھو اور اپنے عیوب کی وجہ سے خاموش رہو اس لئے کہ بیڑھی پر

لِهَذَا الْأَمْرِ ظَنُّوْهُ وَ سَاقَهُ "یعنی کوشش کی اور کوئی بات نہیں کی۔

ظَهَرَ (ف) ظَهْرًا: ظاہر ہونا۔ باہر آنا۔

ظَهْرَهُ ظَهْرًا: پیٹھ پر مارنا۔ ظَهْرَهُ بِعَلْمِهِ: فخر کرنا۔ الشُّيْ وَيَسْ: پیٹھ پیچھے ڈال دینا۔

النُّوب: ابرہہ بنانا (ظَهْرًا وَ ظَهْرًا)۔

الْبَيْتُ: مکان پر چڑھنا۔ عَلَيْهِ: اعانت کرنا۔

بِغْلَانٍ وَعَلَيْهِ: غالب ہونا۔

عَلَى الْبَيْرِ: مجید پر مطلع ہونا۔

بِحَاجَتِي: حاجت کو ہلکا سمجھنا اور پیٹھ پیچھے ڈالنا۔

ظَهَرَ (ن) ظَهْرًا: مضبوط پیٹھ والا ہونا۔

ظَهَرَ (س) ظَهْرًا: پیٹھ میں شکایت ہونا۔

صفت ظہر۔

أَظْهَرَ الشُّيْ: ظاہر کرنا۔ پیٹھ پیچھے ڈالنا۔

الْكِنَابُ: الزر پر چڑھنا۔ أَظْهَرَهُ عَلَى غَدْوَةٍ: دشمن پر غالب کرنا۔

ه عَلَى الْبَيْرِ: مجید پر مطلع کرنا۔

بِهِ: مرتبہ بڑھانا (ظَهْرًا)۔

دو پہر میں چلنا۔ دو پہر میں داخل ہونا۔

ظَهَرَ وَأَظْهَرَ حَاجَتِي: ضرورت کو پیٹھ پیچھے ڈال دینا۔ غافل ہونا۔

ظَاهِرَةٌ مُظَاهِرَةٌ وَ ظَهْرًا: مدد کرنا ظاہرینین الثَّوْبِيْنَ: اوپر نیچے کپڑے پہننا۔

ظَاهِرًا: ظاہر ہونا۔ بِالشُّيْ: ظاہر کرنا۔ الْقَوْمُ: ایک دوسرے سے دور ہونا۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا۔

اسْتَظْهَرَ: احتیاط کرنا۔ الشُّيْ: بچانے کے لئے پیٹھ پیچھے کرنا۔

بِهِ: مدد طلب کرنا۔ لَهُ: تیاری کرنا۔ عَلَيْهِ: چڑھنا غالب ہونا۔

الدُّرْسُ: سبق کو زبانی پڑھنا۔

الظَّهْرُ: پیٹھ۔ پیتھ کا مقابلہ اظْهَرَ وَ ظَهْرًا وَ ظَهْرًا: الظَّهْرُ: بار برداری کا اونٹ۔ مال کثیر۔ تیر کے پرکا چھوٹا پہلو۔

خُشْكِي كَارِاسَةً: کہا جاتا ہے "ساز و آفتاب" طریق الظَّهْرُ: یعنی خُشْكِي کے راستہ میں چلے۔

خَتَّ زَمِيْنَ قَدْرَ ظَهْرٍ: پرانی ہانڈی کہا جاتا ہے۔

قَرَأَهُ عَلَى ظَهْرٍ قَلْبِهِ او عَلَى

الظَّمْيَاءُ: سیاہ اونٹنی۔

الْمُظْطَمِي: وہ کھیت جس کی سیرابی صرف بارش کے پانی سے ہو۔

ظَنَّ (ن) ظَنًّا: جاننا اور یقین کرنا اور اسی سے ہے "ظَنُّوْا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ" یعنی یقین کیا کہ اللہ کے عذاب سے کوئی

جائے پناہ نہیں مگر اسی کی طرف اور گمان کے معنی میں بھی مستعمل ہے جیسے "ظَنَنْتُ زَيْدًا صَاحِبُكَ"۔

ظَنُّهُ وَ أَظْنَهُ وَ أَظْنَهُ وَ أَظْنَهُ بِكَذَا: تہمت لگانا۔ أَظْنَهُ الشُّيْ: وہم میں ڈالنا۔

أَظْنُ فِيهِ النَّاسُ: تہمت کے لئے پیش کرنا۔ تَظَنَّنَ وَ تَظَنَّى: گمان کرنا۔

الظَّنُّ: گمان اور شک و یقین کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ ج ظَنُّونَ جَ أَظْهَابِيْنَ (خلاف قیاس)

الظَّنَّةُ: تہمت۔ کہا جاتا ہے "فِيهِ ظَنَّةٌ" اس میں تہمت ہے۔ تھوڑی چیز۔ ج ظَنَّسَ وَ ظَنَانِيْنَ۔

الظَّنَانِيَّةُ: تہمت۔

الظَّنَّانُ وَ الظَّنُّونُ: بدگمان۔ رَجُلٌ ظَنُّونٌ: کم حیلہ۔ کمزور۔ جس پر بھروسہ نہ کیا جائے۔

ظَنُّونٌ: کنواں جس کے متعلق معلوم نہ ہو کہ پانی ہے یا نہیں۔

ذَيْنَ ظَنُّونٍ: قرض جس کے متعلق یہ معلوم نہ ہو کہ وصول ہوگا یا نہیں۔

رَجُلٌ ظَنُّونٌ: جس کی خبروں پر بھروسہ نہ کیا جائے۔

الظَّنِّيْنَ: متہم۔ بدگمانی کی وجہ سے جس سے دشمنی کی جائے۔ بے برکت۔ ج أَظْنَاءُ۔

الْأَظْنُ: خیال رکھے جانے کے لائق۔ نَفْسٌ ظَنَاءٌ: نفس متہم۔

مَظْنَةٌ الشُّيْ: جگہ جہاں چیز کے موجود ہونے کا گمان ہو۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ مَظْنَةٌ الْحَبْرِ وَ فِي الْمَسْأَلَةِ مَظْنَةٌ أُغْيِرَاضِ" ج مَظَانٌ۔

الظَّنْبُوبُ: قدم کی جانب پنڈلی کی ہڈی کا کنارہ ج ظَنَابِيْبُ: کہا جاتا ہے "قَرَعَ ظَنَابِيْبَ الْأَمْرِ" یعنی آسان کر دیا۔ "قَرَعَ

الظَّنْبُوبُ وَ الظَّنْمُومُ وَ الظَّنْمُومُ: تہمت کرنے والا۔

الظَّنْمَانُ وَ أَظْنَمَةُ: الظَّنْمَانُ: جو شخص ظلامیہ مذہب پر ہو۔

الظَّنْمَانِيَّةُ: وہ لوگ جن کا نظریہ ہے کہ عوام کو تعلیم و تعلم دینا بے فائدہ ہے۔

الظَّنْمِيَّةُ: جو تم سے ظلمالی جائے۔

أَمْرٌ مِظْلَامٌ: دشوار و مشکل کام۔

ظَمِيٌّ (س) ظَمًا وَ ظَمًا وَ ظَمَاءٌ وَ ظَمَاءَةٌ: سخت پیاسا ہونا۔ إِلَيْهِ: مشتاق ہونا۔

صفت مذکر ظمى و ظامى و ظمان اور صفت مؤنث ظمينة و ظامينة و ظمى و ظمائية۔ ج ظمَاءٌ: مذکر و مؤنث دونوں کے لئے۔

ظَمَاءَةٌ وَ أَظْمَاءَةٌ: پیاسا کرنا۔ ڈبلا کرنا۔ تَظْمًا: پیاس پر صبر کرنا۔

الظَّمُ: پیاس۔ ج أَظْمَاءُ۔

الظَّمَاءُ وَ الظَّمَاءُ: پیاس۔

المِظْمَاءُ: سخت پیاس والا۔

المِظْمَاءُ: پیاس لگانے والی جگہ۔

ظَمِيٌّ يَظْمِيٌّ ظَمِيٌّ: گندم گوں ہونا۔ صفت أَظْمِيٌّ: مؤنث ظَمِيَاءُ ج ظَمِيٌّ: شفقہ ظَمِيَاءُ: پڑ مردہ گندمی ہونٹ۔ عَمِيْنٌ ظَمِيَاءُ: باریک پلکوں والی آنکھ۔ لَقَّةٌ ظَمِيَاءُ: کم خون والے سوڑھے۔ سَاقٌ ظَمِيَاءُ: کم گوشت والی پنڈلی۔



ع : اَلْعَيْنُ : اٹھارواں حرف بنیادی حروف میں سے۔ حروف حلق میں سے ایک یعنی اس کا مخرج حلق ہے۔

عَبَّ : (ن) عَبَّأً : تغیر کے بعد چہرے کا خوبصورت ہونا..... السَّاءُ : جانوروں کی طرح منہ لگا کا پانی پینا۔ عَبَّتِ الدَّلْوُ : ڈول کا بھرتے وقت گڑ گڑانا..... عَبَّابُ الْبَحْرِ : موج کا زیادہ ہونا اور بلند ہونا۔

تَعَبَّ : النَّيْذُ : ڈگدگ کے پینا۔

الْأَعْبُ : فقیر۔ سخت ناک والا۔

العَبُّ : مص۔ اولے۔ عَبَّ الشَّمْسُ : آفتاب کی روشنی۔

العُوبُ : آستین کا سرا۔ عَجَابُ : العُوبُ : اُحْسِنُ وَالْإِطَانِي .

العَبَابُ : منہ لگا کر پانی پینا۔

العَبَابُ : سیلاب کا چڑھاؤ۔ عَبَابُ الْبَحْرِ : موج۔ کہا جاتا ہے "جَسَاؤُ بَعَابِهِمْ" سب آئے۔ العَيْبَةُ وَالْحَيْبَةُ : نخوت۔ فخر۔ تکبر۔

غرور۔

الْبَغِيضُ : تیز بہنے والا دریا۔ تیز رفتار لہا گھوڑا۔ بادل ج بَغَابِيْبُ .

عَبَّأُ : (ف) عَبَّأً وَعَبَّأً تَعْبَةً وَتَعْبِيْنَا الْمَتَاعُ : سامان کرنا..... الْجَيْشُ لِلْحَرْبِ : لشکر مرتب کرنا۔ عَبَّأُ إِلَى فَلَانٍ وَلَهُ : قصد کرنا۔ کہا جاتا ہے "لَا أَعْبَابُهُ" مجھے اس کی پروا نہیں۔

إِعْتَبْنَا مَا عِنْدَهُ : سب کچھ لے لینا۔

الْبَعْثُ : بوجھ۔ بوری۔ گھڑی۔ ج اَعْبَاءُ

(..... وَالْعَبُّ) : مثل نظیر۔ ج اَعْبَاءُ .

العَبَاءُ : چغڑ۔ ج اَعْبِيَّةُ .

العَبَاءَةُ : چغڑ۔

الْمَعْبُوءُ : راستہ۔

الْمَعْبُوءُ : حیض والی عورت کا چھینڑا۔

عَبَّتْ : (ن) عَبَّيْنَا يَنْدُهُ : ہاتھ موڑنا۔

عَبَّتْ : (ن) عَبَّيْنَا الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ : ملانا۔

عَبَّيْتُ : (س) عَبَّيْتُ : کھیل کود کرنا۔ مذاق کرنا..... بِالسَّالِدِيْنَ : حقارت کرنا۔ صفت عَبَابُ وَعَبِيْتُ .

عَبِيَّةُ النَّاسِ : مختلف قسم کے لوگ۔

السَّعِيْثُ : بے فائدہ لغو۔ بے نتیجہ۔ کہا جاتا ہے "فَعَلَّ ذَلِكَ عَبَّيْنَا" اس نے یہ کام لغو کیا۔

العَبِيْثُ : ایک قسم کا پھول۔

العَبْوُورَانُ وَالْعَبِيْرَانُ : ایک قسم کا خوشبودار پودہ۔ تار کے فتر سے بھی ہیں۔

عَبَدَ (ن) عَبَادَةٌ وَعِبَادَةٌ وَعِبَادِيَّةٌ وَمَعْبَدًا وَمَعْبَدَةً . اللّٰهُ : ایک جانتا۔ خدمت کرنا۔ ذلیل ہونا۔ خضوع کرنا۔ پرستش کرنا۔ کہا جاتا ہے "مَا عَبَدَكَ عَنِي" یعنی کس چیز نے تم کو مجھ سے روکا۔

عَبَدَ (ك) عَبَادَةٌ وَعِبَادَةٌ : باپ دادا سے غلام رہنا۔

عَبَدَ (س) عَبَدْنَا وَعَبَدْنَا عَلَى فَلَانٍ : غضبناک ہونا..... مِنْهُ : ناک چڑھانا۔

مَا قَالَهُ : انکار کرنا..... عَلَى نَفْسِهِ : ملامت کرنا..... السَّرْجُلُ : تادم و پشیمان ہونا..... ؕ :

لازم ہونا۔ جدا ہونا..... عَلَى الشَّيْءِ : حریض ہونا۔ صفت عَبَابٌ وَعَبِيْدٌ .

عَبْدُهُ : فرماں بردار بنانا۔ غلام بنانا۔ عَبْدُ السُّطُوْنِي : راستہ کو چلنا ہونا بنانا۔ پانچا ل کرنا۔

السَّرْجُلُ : جلدی کرنا۔ بھاگنا..... البَعِيْرُ : قطران ملنا (دیکھئے السَّقِيْرَان) کہا جاتا ہے "عَبْدٌ يَغْدُو" یعنی کچھ تیز دوڑا۔ "مَا عَبَدَ أَنِي فَعَلَّ كَمَا" اس نے ایسا کرنے میں دیر نہیں کی۔

أَعْبَدَهُ الْغُلَامُ : غلام کا مالک بنانا۔ أَعْبَدَ الْغُلَامُ : غلام بنانا..... الْقَوْمُ : جمع ہونا۔

تَعَبَّدَ : عبادت کے لئے علیحدہ ہونا..... ؕ : اطاعت کے لئے بلانا۔ غلام بنانا۔ غلام جیسا برتاؤ کرنا۔

تَعَبَّدَ الْقَوْمُ : متفرق ہونا۔

اِسْتَعْبَدَهُ وَاعْتَبَدَهُ : غلام بنانا۔

العَبْدُ : آدی۔ غلام۔ ج عَبِيْدٌ وَعِبَادٌ وَعِبْدَةٌ وَعَبْدُوْنَ وَأَعْبُدُ وَعَبْدَانٌ وَعَبْدَانٌ وَعِبْدَانٌ وَأَعْبَادٌ وَمَعْبَدَةٌ وَعِبْدَاءٌ وَعَبْدِي وَعَبْدٌ وَعَبْدٌ وَمَعْبُودَاءٌ ج اَعْبَادٌ وَمَعْبَادٌ وَأَعْبُدَةُ عَبْدِيْقٌ وَعَبْدِيْقٌ : خاندانی غلام۔

السَّعْبِيَّةُ وَالسُّبُوْدَةُ وَالْعَبُوْدِيَّةُ وَالسَّعْبِيَّةُ : فرمائبرداری۔ غلامی۔ ذَرَاهِمٌ عَبْدِيَّةٌ : پرانے دراہم۔

العِبَادُ : عہد کی جمع۔ حیرہ کے چند نصرانی عربی قبائل۔ نسبت کے لئے عِبَادِيٌّ .

العَبَادِيْدُ وَالْعَبَائِيْدُ : لوگوں کے فرقے۔ گھوڑوں کے گلے۔ ڈور کے راستے۔ (ان

گھوڑوں کے گلے۔ ڈور کے راستے۔ (ان

گھوڑوں کے گلے۔ ڈور کے راستے۔ (ان

گھوڑوں کے گلے۔ ڈور کے راستے۔ (ان

گھوڑوں کے گلے۔ ڈور کے راستے۔ (ان

کاواحدیں)

العابِد: فا۔ خادم۔ رج عَبَدَة. عِبَاد.
عَابِدُونَ: مؤنث عَبِيدَة رج عَبَائِدَات
وغَوَابِد.

السَّعْبَة: قوت۔ بقاء۔ موٹاپا۔ زندگانی۔
خوشبو پینے کا پتھر۔ خودداری۔

المُعْبَد: عبادت گاہ۔ رج مَعَابِد.

المُعْبَد: عبادت گاہ۔

المُعْبَد: کسی۔ پھاوڑا۔ رج مَعَابِد.

السُّعْبِد: مفتح۔ روندنا ہوا راستہ۔ کرم معظم۔

سُجَّ: کھوئی۔ قطران ملا ہوا اُونٹ بَعْبِيرٌ مُعْبَدٌ:

اُونٹ جس کی سواری چھوڑ دی گئی ہو۔

مؤنث مُعْبِدَة. المُعْبِدَة: قارلی ہوئی کسی۔

عَبْرٌ: (ن) عَبْرًا: مٹگین ہونا اور آنسو بہانا

..... العَيْنُ: آنکھ کا ڈبڈبا آنا الكتاب:

چپکے چپکے غور کرنا الدَّرَاهِمُ: کیت و

کیفیت دراہم کو دیکھنا عَبْرًا وَغُبُورًا)

السَّبِيلُ: طے کرنا۔ مرنا۔ گزرتنا النَّهْرُ

والوَادِي: پار کرنا عَبْرِيه المَاء: گزر جانا

(..... عَبْرًا وَعِبَارَةً) الرُّوْيَا: خواب کی تعبیر

بیان کرنا۔

عَبْرٌ: (س) عَبْرًا: آنسو بہانا۔ صفت مذکر و

مؤنث عَبِيرٌ: عبرت حاصل کرنا اور اسی سے

عرب کا قول ہے "أَللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَعْبُرُ

الدُّنْيَا وَلَا يَعْبُرُهَا" اے اللہ! ہم کو ان لوگوں

میں سے بنا جو دنیا سے عبرت حاصل کرتے

ہیں اور بغیر تیری رضا مندی حاصل کئے

جلدی مرتے نہیں۔

عَبْرٌ: الرُّوْيَا: خواب کی تعبیر بیان کرنا
عَمَّا فِي نَفْسِهِ: دل کی بات ظاہر کرنا

..... عَنْ كَذَا: بولنا عَبْرَةٌ بِالسَّمَاءِ: پار

کرنا الدَّرَاهِمُ: دراہم کی کیت و کیفیت

دیکھنا يَه: ہلاک کرنا يَه الْأَمْرُ: دشوار

ہونا۔

إِعْتَبِرِ الشَّيْءَ: آزمانا۔ غور کرنا مِنْهُ: تعجب

کرنا يَه: نصیحت حاصل کرنا۔ الرَّجُلُ:

اقتہار کرنا۔

إِسْتَعْبَرْتُ: آنسو بہانا۔ مٹگین ہونا الدَّرَاهِمُ

: کیت و کیفیت معلوم کرنا۔ اسْتَعْبَرَهُ الرُّوْيَا

أَوْ الدَّرَاهِمُ: تعبیر بیان کرنا۔ دراہم کی

کیفیت و کیت پوچھنا العَيْنُ: آنکھ کا ڈبڈبا

آنا۔

العَابِرُ: فا۔ گزرنے والا۔ کسی چیز میں غور

کرنے والا۔ رج عَبَائِرُونَ وَعَبَارٌ وَعَبْرَةٌ:

مؤنث عَبِيرَةٌ: کہا جاتا ہے "ذخَّل عَبِيرٌ

سَبِيلٌ" بغیر ٹھہرے ہوئے گزرتے ہوئے

داخل ہوا۔

العَبَارُ: مبالغہ عابِر: خواب کی تعبیر بتانے

والا۔ جَمَلَ عَبَّارٌ: چلنے میں قوی اُونٹ۔

العَبْرُ وَالْعَبْرُ: مِنَ الوَادِي: کونہ۔ کنارہ۔

مجلس۔ عَبْرٌ وَعَبْرٌ: بہت آدمیوں والی

مجلس۔

بَنَاتُ عَبْرٍ: جھوٹ۔ باطل۔ أَبْوَابُ عَبْرٍ:

جھوٹا۔

العَبْرُ: ہر چیز کی کثرت۔ انسان کی ہی کثرت

پر استعمال ہوتا ہے۔ تیز چلنے والا بادل۔

عورت جس کا بچہ کھو گیا ہو۔ عَقَاب (والعَبْرُ):

آنکھ کی گرمی جو آنسو بہاتی ہے۔

العَبْرُ وَالْعَبْرُ وَالْعَبْرُ: قوی۔ مضبوط (مذکر

مؤنث واحد جمع) کہا جاتا ہے "فَلَانَ عَبْرٌ

لِكُلِّ عَمَلٍ" یعنی ہر عمل کے لائق ہے

"جَمَالَ عَبْرٌ أَسْفَارٌ" چلنے میں قوی اُونٹ۔

السَّبْرِيَّة: عبر کا اسم مرہ۔ آنسو ج عبْر

وَعَبْرَات: غم۔

العَبْرَةُ: نصیحت۔ کہا جاتا ہے "أَلَمْ يَفْلَانِ

عَبْرَةٌ" احوال و کیفیات میں غور و فکر تجب۔

اصل جو نظائر کا مرجع ہو۔

السَّبْرَةُ العَبْرِيَّة: اعداد اور حروف کا مجموعہ

جن کے ساتھ الجبراء کیا جاسکے۔

السَّبْرَةُ: اسم ہے عَبْرٌ: کا۔ معنی پردالات

کرنے والے الفاظ۔ کہا جاتا ہے "فَلَانَ

حَسَنُ العَبْرَةِ" فلاں اچھایان کرنے والا

ہے۔ "هَذَا عِبَارَةٌ عَنْ كَذَا" یہ اس کے ہم

معنی ہے۔

أَلْعَابِيرُ: وہ پرندوں کی جماعت جو کہ کسی

ایک علاقہ میں ٹھکانہ نہ بنائیں جیسے

تورغل: دروار اور فری۔ (سریانی لفظ)

العَبْرُ: مؤنث عَبْرَةٌ. العَبْرَانُ: مؤنث عَبْرِي

رج عَبْرَانِي: آنسو بہانے والا۔ مٹگین۔

العَبْرِيَّة وَالْعَبْرَانِيَّة: یہودی۔ یہودیوں کی

زبان۔

العَبْرَانِيَّة: یہودیوں کی زبان۔ یہودیت۔

العَبْرِيُّ: ایک مرکب خوشبو کا نام۔ سَهْمٌ عَبْرِي:

بہت پروں والا تیر۔ قَوْمٌ عَبْرِيٌّ: بہت لوگ۔

المُعْبَرُ: گزر گاہ گھاٹ۔

السَّبْرُ وَالْمُعْبَرَةُ: دریا عبور کرنے کا

ذریعہ۔

السَّبْرُ: بہت بالوں یا پروں والا۔ غَلَامٌ

مُعْبَرٌ: لڑکا جس کو احکام ہونے لگے اور ابھی

تک تختہ نہ ہوا ہو۔

أَلْعَبْرُبُ: سماق نامی درخت جس کا پھل کھٹا

ہوتا ہے۔

العَبْرُ: بکری کا بچہ۔ رج عَبْرَانِي: غیر مختون رج

عَبْرٌ: العَوْبُرُ: چھتے کا بچہ۔ تیندوے کا بچہ۔

عَبْسٌ: (ض) عَبْسًا وَعَبُوسًا: ترش روئی

کرنا۔ تیوری چڑھانا۔ عَجِسَ بَعْجِيں ہونا

(وَعَبَسَ) الوُجْهُ: ترش رو۔ عَبَسَ وَجْهَهُ:

ترش روئی کرنا۔

عَبَسِي: (س) عَبَسًا التَّبْعِيُّ: اُونٹ کی ذم

کی مٹھی کا خشک ہونا الوُسْخُ فِي يَدِهِ

وَعَلَيْهَا: میل خشک ہونا۔

أَعْبَسَ الرَّجُلُ: میلا ہونا الْإِبِلُ: ذم پر

خشک مٹھی والا ہونا السُّوْبُ: میل خشک

ہونا۔

تَعَبَسَ: ترش رو ہونا۔

العَبَسُ: مصل۔ اُونٹ کی ذم پر خشک مٹھی۔

العَبُوسُ وَالْعَبَّاسُ: بہت ترش رو۔ شِيرٌ-يَوْمٌ

عَبُوسٌ: سخت دن۔

عَبَسَ: (ن) عَبَسًا. الشُّيْءُ: اصلاح کرنا۔

دُرست کرنا۔

العَبْسُ: درست۔ صلاح: وَالْعَبْسُ

و العيشة: عبادت۔ کندہنی۔

العيشة والعيشة: غفلت۔

عبط: (ض) غبطا۔ الذبيحة: مونے

تازے کو ذبح کرنا۔ الصرع: جھن کو خون

آلود کر دینا۔ السراب: مٹی اُڑانا۔

الزجل: غیبت کرنا۔ الذواہی فلانا: بلا

کسی سبب کے مصیبت پہنچانا۔ الكذب: بلا

کسی عذر کے جھوٹ گھڑنا۔ عرضہ: گالی

دینا۔ بے آبرو کرنا۔ غبطت الريح وجبة

الارض: سطح زمین کا صاف کر دینا۔

الشيء: پھٹ جانا۔

أعططه السموت: محبت و جوانی میں موت

واقع ہونا۔

إعبطت الذبيحة: مونے تازہ ذبح کرنا۔

السموت: محبت و جوانی میں موت واقع ہونا۔

الرجل: ظلماً قتل کرنا۔ العرض: گالی

دینا۔ بے آبرو کرنا۔ السرجل: بخارا نا۔

زخمی کیا جانا۔

العبط: سفید جھوٹ۔ خالص افترا۔ کہا جاتا

ہے مات عططہ: یعنی صحیح تندرست جوان مر

گیا۔

العيط: تندرست مونے تازہ ذبح کیا ہوا

جانور۔ عبط و عباط۔ اؤنم عطيط: پینا

ہوا چمڑا۔ دم عطيط: تازہ خون۔

الاغيطا: مصدر اغبط۔ الحذف

الاغيطا عند النحاة: وہ حذف جو بغیر کسی

علت کے ہو۔

العويط: مصیبت۔ سمندر کا وہ حصہ جہاں

پانی زیادہ ہو۔ عوايط۔

عغب الحيش: لشکر کا شکست کھانا۔

تععبت الشيء: پورے کو ہلاک و برباد کر

دینا۔

العنعب: کشادہ کپڑا۔ اؤنٹ کے بالوں کا

نرم کپڑا۔ (.....) والعنعب: بلند قد والا۔

کشادہ خلق والا۔ کامل الخلق۔

خوشبو سے بھرا۔ ائنا۔ فلان بالشئ:

حریص ہونا۔ بالمکان: اقامت کرنا۔

عقب رائحة الطيب: خوشبو پھیلانا۔

العقبه: مٹی وغیرہ کا پتھر۔

العقب: خوشبودار۔ وہ چیز جس سے خوشبو

بھڑکے۔ کہا جاتا ہے "زجل عقب لبق" یعنی

ظریف مرد۔

العقابية: مصل۔ مکار۔ مصیبت۔ چہرے پر

زخم کا نشان۔ شاطر چور۔

عقفر عقفرة السراب: سراب کا چمکانا۔

عقفر: نام ایک مقام کا جس کے متعلق عرب

کا گمان تھا کہ وہاں جنات بہت ہیں۔

العقروني: عبقری کی طرف منسوب۔ سردار۔ ہر

چیز سے فائق۔ تعجب انگیز چیز۔ مونت

عقروية: (.....) والعقروية: ایک قسم کا نفیس

فرش۔

عيبك: (ن) عيبك۔ الشئ بالشئ:

ملا نا۔

العيبك: کھڑا۔ مشک کی میل۔ رسی کی گانٹھ کہتے

ہیں "ينسلي الخبل وتبقى العيبك" یعنی رسی

جل جائے اور بل نہ جائے۔

عيل: (ض) عبلا۔ الشجرة: درخت سے

پتے گرانے۔ السجل: رسی بٹنا۔ الشئ:

کاشا۔ رد کرنا۔ روکنا۔ یہ لے جانا۔

الشجر: پتے لگانا۔

عيل: (س) عبلا وعيل: (ک) عبولا

وعبالة: مونے ہونا۔ صفت عبل وعيل ج

عابل وعيال ج عبل ج عبل ج عبل ج عبل ج عبل ج

عبل ج عبل ج عبل ج عبل ج عبل ج عبل ج عبل ج

عبل ج عبل ج عبل ج عبل ج عبل ج عبل ج عبل ج

عبل ج عبل ج عبل ج عبل ج عبل ج عبل ج عبل ج

عبل ج عبل ج عبل ج عبل ج عبل ج عبل ج عبل ج

عبل ج عبل ج عبل ج عبل ج عبل ج عبل ج عبل ج

عبل ج عبل ج عبل ج عبل ج عبل ج عبل ج عبل ج

عبل ج عبل ج عبل ج عبل ج عبل ج عبل ج عبل ج

العبلاء: چٹان۔ بقول بعض سفید چٹان۔ ج

عبل۔

المعبل: تیر کا لہا چوڑا چھل ج معابل۔

العبول: موٹ۔

عيم: (ک) عيانة وعياما: بے وقوف

ہونا۔

ماء عيام: بہت پانی۔

العيام: ست تھا ہوا۔ مونے۔ بے وقوف۔

بے عقل۔ بے ادب۔ بزدل۔ ج عيم۔

العياماء: بے وقوف۔

عين: (ن) عينا: مونے اور کھر در ہونا۔

صفت عبقن وعيني: مونت عينا ج

عبيات۔

العبيات: زگرس۔ جینی (.....) والعبيات:

بھڑے ہوئے جسم والا۔ لہا۔

عبيلة: عتاب کرنا۔ عبيل الابل: اؤنٹ کو

آزاد چھوڑ دینا۔

العبيال: من الابل: آزاد چھوٹے ہوئے

اؤنٹ۔

العباله: یمن کے بادشاہ جو اسلامی حکومت

کے زمانے میں اپنی سلطنت پر چھوڑ دیئے

گئے تھے۔ واحد عبيل۔

عبانفوس عسوا: چہرے کا ڈمک ائنا

..... المتاع: تیار کرنا۔

جارية غابية: خوبصورت لڑکی۔

عني تعبية الحيش: لشکر کو ترتیب دینا۔

تعبي: تیار ہونا۔

العبي: حصہ۔ کہا جاتا ہے "هذا عيبك من

الجور" ذبح کئے ہوئے (اؤنٹ یا بکری)

سے یہ تمہارا حصہ ہے۔

زجل عيانا وعيا: بھاری جسم والا اکھڑ۔

العباية: چنڈ۔ ج عبايات وعبي۔

عنه: (ن) عبا بالمسألة: سوال کرنے

میں اصرار کرنا۔ عبا بالكلام: جھڑکی دینا۔

عانه: جھگڑا کرنا۔ بار بار کلام کو لوٹانا۔

تعنت في كلامه: بار بار کلام کو دہرانا۔

العنت: کلام وغیرہ میں سختی۔

طرف لوٹ گئی یہ مثال اس کے لئے بولی جاتی ہے جو اپنی پرانی عادت پھر اختیار کر لے۔ العُتْر: ہر وہ جانور جو ذبح کیا جائے۔

بکواس (.....) والعُتْبِيَّة: بکری جس کو جاہلیت کے زمانہ میں رجب کے مہینے میں بتوں کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے۔ ج عتَابو۔

العُتْبَرَةُ: کنبہ۔ اولاد۔ مشک خالص کا ٹکڑا۔ خوشگوار تھوک۔ مرزنجوش۔ دانتوں کی تیزی و صفائی۔

العُتْبَارُ: عضو متاسل۔

العُتْبَارُ: بہادر۔ مضبوط گھوڑا۔ سخت خالی مقام۔

العُتْبَرُ مِنَ الرِّجَالِ: موٹا اور عوام کے نزدیک بمعنی شہر۔

عُتْرَسَةٌ: سخت بھینچنا۔ سختی سے پکڑنا۔ عُتْرَسَةٌ: قاله: مال غضب کر لینا۔

العُتْرَسُ والعُتْرَسُ: سخت بھینچنے والا۔ بڑے ذیل ڈول کا موٹے موٹے جوڑوں والا شیر۔ مرغ۔

العُتْرَسُ: سخت سرکش۔ غضبناک۔ بلا مصیبت۔

العُتْرَسُ: موٹی مضبوط اونٹنی۔ العُتْرَسَانُ: مرغ۔

عُتْرَفَ لَهُ: سخت ہونا۔

عُتْرَفَ: بزرگی ظاہر کرنا۔

العُتْرَيْفُ والعُتْرُوفُ: خبیث۔ بدکار۔ مضبوط اونٹ۔ ج عتَارَيْفُ۔

العُتْرُقَانُ: مرغ۔

عُتْفَ: (ض) عَتْفًا. الشَّعْرُ: بال اُكْبِرْنَا۔ العُتْفُ مِنَ اللَّيْلِ: رات کا ایک حصہ۔

عُتْقَ: (ض) عُنْقًا وَعُنْقًا وَعُنْقًا وَعُنْقًا العَيْدُ: آزاد ہونا۔ صفت عَتِيقٌ وَعَتِيقٌ۔

عُتْقَ: (ن) عُنْقًا وَعُنْقًا وَعُنْقَ: (ک) عُنْقًا: پرانا ہونا..... الشَّيْءُ: درست ہونا.....

العُتْمُ: شراب پرانی اور عمدہ ہونا۔ صفت عَتِيقٌ وَعَتِيقٌ وَعُنْقًا..... الِيمِينُ عَلَيْهِ: قسم

العُتْبُ: انگشت شہادت اور بیچ والی انگلی یا بیچ والی اور چنگلیا کے پاس والی انگلی کا درمیان۔ نَسَادُ۔

العُتْبُ والعُتْبَةُ: مکروہ امر۔ شدت۔ سخت زمین۔

العُتْبَةُ: چوکھٹ۔ سیرگی کا زینہ۔ ج عُتْبُ وَعُتْبَاتُ. عُنْبَاتُ المَوْتِ: موت کی سختیاں۔

العُتْبَةُ: وادی کا موڑ۔ العُتْبِيُّ: رضامندی۔

الأُعْتَبَةُ: باعث عتاب۔ ج أَعَاتِبُ. العُتُوبُ: جس پر عتاب کا اثر نہ ہو۔ راستہ۔

العُتْبَةُ والعُتْبَةُ: مفسد۔ عتاب۔ غضب۔ العُتُوبُ: مفسد۔ جس پر عتاب کیا جائے۔

أُمُّ عُتْبَانَ أُمُّ عُنَابَ: بچو۔ عُنْدَ: (ک) عُنَادًا وَعُنَادَةُ الشَّيْءِ: تیار ہونا آمادہ ہونا۔

عُنْدَ وَعُنْدَ: الشَّيْءِ: تیار کرنا۔ تَعْتَدُ فِي صَنْعَتِهِ: غور سے کرنا۔

العُتَادُ: سامان جو کسی مقصد کے لئے تیار کیا جائے۔ سامان جنگ۔ بڑا پیالہ۔ ج أَعْتَدُ وَعُنْدُوا عُنْدَهُ.

العُنْدُ والعُنْدُ مِنَ العَيْلِ: دوڑنے کے لئے تیار گھوڑا۔ مضبوط۔ تَامَ العُجْلَقَةُ: (مذکرو مَوْنُث) عُنْدًا وَعُنْدًا.

العُنْدَةُ: سامان۔ کہا جاتا ہے "عُنْدًا لِلأَمْرِ عُنْدَتُهُ": کام کے لئے اس کا سامان لو۔ ج عُنْدُ.

العُنْدُ: ایک سال بکری کا بچہ۔ ج أَعْتَدَةُ وَعُنْدَانُ.

العُنَيْدُ: تیار۔ آمادہ۔ بھاری بھر کم جسم کا۔ العُنَيْدَةُ: مَوْنُث عُنَيْدُ: سنگھار دان۔

عُنْرَ: (ض) عُنْرًا. الشَّيْءِ: مضبوط ہونا (تَعُنْرًا) العُنْبَرَةُ: ذبح کرنا..... عُنْرًا وَعُنْرَانًا) الرُّمُوحُ: حرکت کرنا۔

العُنْرُ: اصل اور اسی سے مثل ہے "عُنَادَةُ إِلَى عُنْرِهِا لِمِيسَ": یعنی بیس اپنی اصل کی

عُتْبَ (ن ض) عُتْبًا وَعُتْبَانًا وَمُعْتَبًا وَمُعْتَبَةً وَمُعْتَبَةً عَلَيْهِ: کسی فعل پر سرزنش کرنا۔ ظہنی ظاہر کرنا۔

(..... عُتْبًا وَعُتْبَانًا وَعُتْبِيًّا) فَلَانًا: ملامت کرنا..... عُتْبًا وَعُتْبَانًا وَعُتْبَانًا: ایک پاؤں پر کودنا..... (أَلْبَعِيرُ): تین ناگوں پر چلنا..... (عُتْبَانًا) البُرْقُ: بجلی کا لگا تار چمکانا.....

مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ وَمِنْ قَوْلٍ إِلَى قَوْلٍ: ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ایک بات سے دوسری بات کی طرف منتقل ہونا۔

عُتْبَ: السَّرْجُلُ: دیر کرنا..... البَابُ: دروازے کی دلہیز بنانا۔ عَاتِبَهُ عُنَابًا وَمُعَاتِبَةً عَلَيَّ كَذَا: ملامت کرنا۔ غصہ کرنا۔

نَارًا: عُنْبَةً: سبب ناراضی و ملامت کو دور کرنا۔

رَضَامُنْدُ كَرْنَا: أَعْتَبَ عُنَهُ: پھر جانا۔ تَعْتَبُ: القَوْمُ: ایک دوسرے پر ناراضی کا اظہار کرنا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ لَا يَتَعْتَبُ بِشَيْءٍ وَلَا يَتَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ" یعنی اس پر عیب نہیں لگایا جاتا۔ تَعْتَبُ بَابُ فَلَانُ:

کسی کی چوکھٹ کو پھلانگنا۔ کسی کی چوکھٹ پر پڑا رہنا۔

تَعَاتَبَ الرَّجُلَانُ: ایک دوسرے پر ناراضی کا اظہار کرنا۔ ناز سے ایک دوسرے سے گفتگو کرنا۔

إِعْتَبَ: میانہ روی اختیار کرنا۔ الطَّرِيقُ: آسان راستہ چھوڑ کر دشوار اختیار کرنا.....

مِنْهُ وَعُنَهُ: پھر جانا۔

إِسْتَعْتَبَهُ: رضامند کرنا۔ رضامندی طلب کرنا۔ کہا جاتا ہے "إِسْتَعْتَبْتُهُ فَاعْتَبَيْتِي" اس سے میں نے رضامندی طلب کی اس نے مجھے رضامند کر دیا اور اسی سے ہے "مَسَبَعُدُ المَوْتِ مُسْتَعْتَبٌ" یعنی موت کے بعد طلب رضامندی کا موقع نہیں۔

العُتْبُ: لنگڑا ہٹ۔ کہا جاتا ہے "بِسْرِجِلِهِ عُتْبُ" اس کے پیر میں لنگڑا ہٹ ہے۔

العُتْبُ: بہت عتاب کرنے والا۔

..... السَّعْمُ: چوپایوں کے دوشے میں دیر کرنا۔

السَّعْمُ وَالسَّعْمُ: جنگلی زیتون کا درخت۔ واحد عُتْمَةٌ وَعُتْمَةٌ.

السَّعْمَةُ: رات کی پہلی تہائی۔ رات کی تار کی۔ دیر کرنا۔

السَّعْمُ: فَا۔ کہا جاتا ہے ”جَسَاءٌ نَا ضَيْفٌ عَاتِمٌ“ ہمارے پاس مہمان دیر میں شام کے وقت آیا۔ مَوْنَتْ عَاتِمَةٌ.

النُّجُومُ الْعَاتِمَاتُ: ستارے جو غبار وغیرہ کی وجہ سے تاریک ہو جائیں۔

السَّعْمُ: اُوْنِي عِشَاءَ کے وقت دودھ دینے والی۔ السَّعْمُومَةُ: بہت دودھ دینے والی۔ اُوْنِي۔

السَّعْمُ: دیر کرنے والا۔ رَجُلٌ مِسْمَامُ الْقِسْرَى: دیر میں مہمانی کا کھانا پیش کرنے والا۔

عَتْنَةٌ: (ض ن) عَتْنَا. اِلَى السَّبْحِ: قَبْدِ خَانَةِ كِي طَرْفِ زَوْرٍ سَ وَكَلِيْنَا.

أَعْتَنَ عَلَيَّ غَرْنِيمَةَ: قَرْضِ دَارٍ سَ تَحْتِي كَرْنَا۔ تَكْلِيْفٌ بِبَنِيْنَا۔

الْعَاتِنُ وَالْعَتُونُ: قَوِي رَجُ عَتْنُ.

الْعَيْنُ مِنَ الرِّجَالِ: بَحْتِ حَمَلٍ كَرْنَا وَالَا۔ عَيْةٌ: (س) وَحِيَهُ عَتْنَهَا وَعَتْنَهَا وَعَتْنَاهَا وَعَتْنَاهَا وَعَتْنَاهِيَةَ: كَمِ عَتْنِ هَوْنَا۔

بَدِ هَوْنَا هَوْنَا۔ صَفْتِ مَعْتُوهُ وَمَعْتُهُ وَعَتْنَاهِيَةَ. فِي الْعِلْمِ: حَرِيْسٌ هَوْنَا. عَيْةٌ فَلَانٌ فِي فَلَانٍ تَكْلِيْفٌ بِبَنِيْنَا كَا خَوَائِشِ مَدِ هَوْنَا۔ صَفْتِ عَيْةِ رَجُ عَتْنَاهَا.

تَعْتَنَةُ: جَائِلٌ بِنَا۔ يَأْكُلُ بِنَا..... عَتْنَةُ: تَغَائِلُ بَرْتَا۔

الْعَتَاهِيَةُ وَالْعَتَاهَةُ: مِصْ۔ جِنُونٌ اَوْرُوْبَشْتِ سَ يَأْكُلُ لَوْكٌ۔ الْعَتَاهَةُ: مَرَايٌ۔ بَے وَتَوْنِي۔

عَسَا يَعْخُو عَتْوًا وَعَيْتًا وَعَيْتًا: تَكْبِيْرٌ كَرْنَا۔ حَدِ سَ كَرْنَا۔ صَفْتِ عَعَاتِ رَجُ عَتْنَاةٌ وَعَيْتِي.....

بَعْنِ الْاَدَبِ: اَدَبٌ قَبُوْلٌ نَدِ كَرْنَا۔

الْاَيَامُ: بَحْتِ كَرْمِي وَالَا۔

عَتْلَةٌ: (ن ض) عَتْلًا: بَحْتِي سَ كَهْنِيْنَا۔ كَهَا جَاتَا بَے ”عَتْلَةُ اِلَى السَّبْحِ“ قَبْدِ خَانَةِ كِي طَرْفِ تَحْتِي سَ كَهْنِيْنَا..... الشُّيْ: اَثْمَانَا۔

عَيْلٌ: (س) عَتْلًا اِلَى الشَّرِّ: بَرَايِ كِي طَرْفِ جِلْدِي كَرْنَا۔ صَفْتِ عَيْلٌ.

اِنْعَتَلُ: كَهْنُجُ جَاتَا..... وَتَعْتَلُ: جِلْدِ سَ نَدِ بَنَا۔

السَّعْتَلَةُ: بَرَاؤِ هَيْلَا۔ كِدَالٍ۔ بَرُوِي لَامِحِي۔ رَجُ عَقْلٌ.

السَّعْتَلُ: بِبَهْتِ كَهَانَةِ وَالَا۔ سَرَكَشِ۔ بَحْتِ عَادَتِ وَالَا۔ بَحْتِ۔

الْعَتَالُ: بَارِ بَرُوَارِ قَتْلِي۔ مِشِي كَا نَامُ۔ الْعِنَالَةُ. الْعَيْتِيْلُ: مَزُوْرٍ۔ خَادِمٌ۔ رَجُ عَتْلٌ وَعَتْلَاءُ. دَاءٌ عَيْتِيْلٌ: بَحْتِ مَرَضِ۔

المَيْعَتَلُ: كَهْنِيْتِي فِي قَوِي وَمُخْبُوْطِ۔

عَتْمٌ: (ض) عَتْمًا. اللَّيْلُ: رَاتِ كَا اِيَكِ حَصْرٍ كَرْنَا..... عَنِ الْاَمْرِ: كَامِ كَرْتِي كَرْتِي رَكِ جَاتَا۔ قَبْرِي الضَّيْفِ: مَهْمَانِي كَهَا نَتِي فِي دِيرِ كَرْنَا۔

عَتْمٌ عَنِ الْاَمْرِ: كَامِ كَرْتِي كَرْتِي رَكِ جَاتَا..... قِسْرَاءُ: مَهْمَانِي كَهَا نَتِي فِي تَاخِيْرِ كَرْنَا۔

كَهَا جَاتَا بَے ”مَا عَتْمُ اَنْ وَقَفْتُ بِنَا“ بَحْتِي دِيرِ نَمِيْسِ كِي۔ ”حَمَلٌ عَلَيْهِمْ فَمَا عَتْمُ“ بَحْتِي اِنِ طَرِ حَمَلِي كَا تُوْمَنْ نَمِيْسِ بَحِيْرَا..... الرَّجُلُ: تَارِي كِي فِي سَ چَلْنَا..... السَّطَاوِيُّ: پَرِنْدَہ كَا اِنْسَانِ كَهَا سَرِ كَهَا قَرِيْبِ يَدِ بَحْرٍ بَحْرَا۔

أَعْتَمْتُ قَبْرِي الضَّيْفِ: مَهْمَانِي كَهَا نَتِي فِي دِيرِ كَرْنَا۔ دِيرِ هَوْنَا (لَا زِمٌ وَمَتَعَدِي).....

خَا جَعْتُهُ: مَوْخَرٌ كَرْنَا..... خَا جَعْتُهُ: مَوْخَرٌ هَوْنَا..... السَّيْلُ: رَاتِ كَا اِيَكِ حَصْرٍ كَرْنَا.....

الرَّجُلُ: تَارِي كِي فِي چَلْنَا يَادَا ضِلٌ هَوْنَا..... عَيْنِ الْاَمْرِ: كَامِ كَرْتِي كَرْتِي رَكِ جَاتَا۔

عَتَمْتُ: (ن ض) عَتْمًا وَاعْتَمَمْتُ وَتَعْتَمْتُ وَاسْتَعْتَمْتُ النَّاقَةَ: عِشَاءَ كَهَا نَتِي دُوْبَا جَاتَا۔ صَفْتِ عَاتِمَةٌ. رَجُ عَاتِمَاتِ وَعَوَائِصِ وَاسْتَعْتَمْتُ الرَّجُلُ: دِيرِ كَرْنَا

وَاجِبٌ هَوْنَا۔

أَعْتَقْتُ الْعَبْدَ: غَلَامٌ اَزَادُ كَرْنَا..... الْقَرْوَسُ: تَمِيْرٌ دُوْرَانَا..... مَالَةٌ: دَرَسْتُ كَرْنَا۔

عَشَقٌ: السَّخْمُ: پَرَانِي كَرْنَا۔ عَشَقٌ الْقَوْبُ: كَپْرُے كُو پَرَانَا كَرْنَا..... فَلَاتَا بِفَيْهِي: مَنَدِ سَ كَا تِ كَهَانَا۔

الْعَيْشُ: مِصْ۔ اَصْلُ كَا خَالِصٌ هَوْنَا۔ جَمَالِ۔ شَرَاشَتْ: نَجَاتِ۔ اَزَادِي۔ كَهْمِي۔

الْعَشَقُ: كَهْمِي۔ اَزَادِي۔ عَاتِقٌ: مَعْنِي كَنَدَا كِي جَمْعِ۔

الْعَشَقُ: اِيَا دَرِخْتِ جِصِ كِي كَلْمِي اَعْلَى مِعْيَارِ كَهَا اَوْرُوْبَشْتَانِ كَهَا كَامِ آتِي بَے۔

الْعَلَاتِقُ: فَا۔ كَنَدَا۔ رَجُ عَوَائِقِ وَعَشَقٌ: كَشَادَه مَشْكٌ۔ عَمْدَه شَرَابٌ۔ پَرَانِي شَرَابٌ۔

دُو شِيْزَه۔ رَجُ عَشَقِي. عَالِيْقُ الشَّرْبَا: نَامِ سَتَارَه (دُو الْعَالِيْقَه): پَرَانِي سَرِخِ كَمَانِ۔

الْعَتَاقُ: پَرَانِي عَمْدَه شَرَابِ۔

الْعَيْشِيُّ: پَرَانَا۔ اَزَادُ كَرْدَه غَلَامٌ۔ كَرِيْمٌ۔ عَمْدَه رَجُ عَشَقَاءُ وَعَشَقِي. قَرْوَسٌ عَيْشِيٌّ: خُوشِ مَشْطَرِ گھُوڑَا۔ رَجُ عَشَقَا. الْبَيْتُ الْعَيْشِيُّ: خَانَه كَهَا۔ اَمَةٌ عَيْشِيٌّ: اَزَادُ كَرْدَه لَوْنُوِي۔

الْمُعْتَقَةُ: پَرَانِي عَمْدَه شَرَابِ۔ اِيَكِ قِسْمِ كَا عَطْرِ۔

عَتَكٌ: (ض) عَتْنَا وَعَتُوْنَا كَا: لِرَايِ فِي سَ حَمَلِ كَرْنَا..... الْقَرْوَسُ: گھُوڑَے كَا دَانَتِ كَا شِي كَا اَرَادَه كَرْنَا۔ عَتَكُ الْبَلَدِ: شَهْرٌ يَرْطَلُمُ كَرْنَا..... عَلِي الْاَمْرِ: كِسِي كَامِ پَرَا قَدَامِ كَرْنَا..... اِلَى الْمَكَانِ: نَائِلٌ هَوْنَا..... عَلَيْهِ بِعَيْبٍ اَوْ ضَرٍ: بَهْلَانِي يَابَرَانِي سَ پِيْسِ آتَا..... اللَّيْنُ: دُوْدَه كَا كَهَا هَوْنَا..... السَّقْوَسُ: كَمَانِ پَرَانِي

هَوْنِ سَ سَرِخِ هَوْنَا۔ صَفْتِ عَابِكِ رَجُ عَوَائِكِ.

السَّعَائِكُ: فَا۔ شَرِيْفٌ۔ خَالِصٌ۔ النَّبِيْدُ الْعَاتِيْكُ: جَا فِ شَرَابِ۔ اَحْمَرٌ عَاتِيْكُ: تَمِيْرُ سَرِخِ۔

الْعَتَكُ: مِصْ۔ زَمَانَه۔ كَهَا جَاتَا بَے ”مَضِي عَلَيْهِ عَتَكٌ“ بَحْتِي اِيَكِ زَمَانَه كَرُ رُگِيَا۔

الْعَيْتِيْكُ: پَرَانِي هَوْنِ سَ سَرِخِ..... مِيْنِ

الغائبی: نا۔ سرکش۔ لیل غایت: بہت تاریک رات۔

الغیبی: سرکش۔ نج اغتباء۔ غیبی یعنی: بمعنی غنایمتمو۔

تَغَيَّبَ تَغْيِبًا: نا فرمانی کرنا۔ اطاعت نہ کرنا۔ غَفَا: (ن) غفأ: اصرار کرنا۔ غَفَّتِ الغَفَّةُ

الصُّوف: کپڑے کا اون کو چائنا۔ غَشِبَ الحَيَّةُ فُلَانًا: سانپ کا ڈس لینا۔ سانپ کے پھونکنے سے بال کا گرنا۔

غَشَّتْ تَغْيِيبًا وَغَثًا وَغَفَانًا وَمُعَانَةً فِي غِنَائِهِ: سر نکالنا۔

إِغْشَاهُ: عورتی سوئے: بداصلی کا نیکی سے روک دینا۔

العِثُّ: ایک قسم کے سانپ جو خشک سالی میں ایک دوسرے کو کھا جاتے ہیں۔ نج عِثَاتٌ۔ العِثَاءُ: سانپ۔

العِثَّةُ: مِنَ البِنَاءِ: لا اثر بدن کی عورت۔ گناہم حقیر عورت نج عِثَاتٌ۔

العِثَّةُ: کپڑے اون چائے والا۔ نج عِثَّ وَغَثَّ: بڑھیا۔ بے وقوف عورت۔ بد زبان گناہم عورت۔

غَشَجَ: (ض) غَشَجًا: آہستہ آہستہ پینا۔ الغنَج: رات کا حصہ (..... الغنَج والغنَجَةُ): لوگوں کی جماعت۔

غَفَّرَ: (ن ض) وَغَفَّرَ (س) وَغَفَّرَ (ك) غَفَّرًا وَغَفِيرًا أَوْ عَفَّارًا: گناہ..... الفرس: گھوڑے کا پھسلنا اور اونہا ہونا.....

العِزْرِيُّ: رگ کا حرکت کرنا۔ کہا جاتا ہے "عِزْرِيهِمُ الزَّمَانُ" زمانہ ان کے اندر تباہی ڈال دی۔ "غَفَّرَ جِدَّةً" یعنی ہلاک ہو گیا۔

غَفَّرَ: (ن) غَفَّرًا وَغَفُورًا: عَلِيٌّ السَّيْرُ وَغَيْرُهُ: ہمید پر مطع ہونا۔

عَشْرَةٌ وَأَعَشْرُهُ: پھسلانا۔ أَعَشْرُهُ عَلِيٌّ السَّيْرُ وَغَيْرُهُ: ہمید پر مطع کرنا۔ أَعَشْرَهُ عَلِيٌّ أَصْحَابِهِ: بتا دینا عَشْرِهِ عِنْدَ الْأَمِيرِ: عیب لگانا۔ طعن دینا۔

تَعَشَّرَ الرَّجُلُ وَالْفَرَسُ وَالجِدْلُ: بمعنی عَشَّرَ..... لِسَانَهُ: زبان کا رکنا۔

العُشْرُ: عِقَاب (.....) وَالغُضْرُ: جھوٹ۔ العُشْرَةُ: الغرض۔ جہاد۔ لڑائی۔ گرنا۔ نج عَشْرَاتٌ۔

العُشُورُ: بہت گرنے والا۔ بہت پھسلنے والا۔ العائِرُ: جھوٹا۔

العَائُورُ: شیر کے شکار کے لئے گڑھا۔ کنواں نج عَوَائِرُ وَغَوَائِرُ (.....) وَالعِيسَارُ: پھسلن۔ بدی۔ کمروہ۔ جائے ہلاکت۔

جب کوئی آدمی ورد میں پڑ جائے تو کہا جاتا ہے "قَدْ وَقَعَ فِي عَائُورٍ شَرٍ" یعنی شدت میں پڑ گیا۔

العَيْبَرُ: مٹی۔ غبار (.....) وَالعَيْبَرُ وَالعَيْبَرُ: مخفی نشان۔

أَلْعَقُورُ: کیلے کا گچھا۔ عَشَّجَلُ الْهَوْدَجِ: ہودہ کو جھارو غیرہ سے مزین کرنا..... السَّرْجُلُ: ست رفتار سے دوڑنا..... العِدْقُ: بہت گچھے دار ہونا۔

العُشْكُوْلَةُ الْعُنْكُوْلُ وَالعِشْكَالُ: کھجور کا گچھا نج عَشَّا كَيْلٌ۔

العُشْكُوْلَةُ: جھارو غیرہ جو ہودج میں لٹکایا جائے۔

عَيْشَلٌ: (س) عَيْشَلًا: الشَّيْءُ: بکثرت ہونا۔ مونا ہونا۔ صفت عَيْشَلٌ وَعَيْشَلٌ۔

عَفَلْتُ: (ن) عَفَلًا: يَدُهُ: ٹوٹنے کے بعد ٹیڑھا جڑنا۔

العَفْلُ: بکری کے اوجھ پر کی چربی کی چادر۔ العَفُولُ: بے وقوف۔ نج عَفْلٌ۔

العَفِيلُ: نر بچو۔ العَفُولُ: سر اور جسم پر بہت بالوں والا۔

..... مِنَ الرِّجَالِ: اچھ درشت مزاج۔ عَفَمٌ: (ن) عَفَمًا: الْعَظْمُ الْمَكْسُورُ: ٹوٹی ہوئی ہڈی کا نا ہموار جڑنا..... الْعَظْمُ: ہڈی کو نا ہموار جوڑنا۔

إِغْتَمَمَ بِهِ: بددطلب کرنا۔ نفع اٹھانا۔ بیدہ: جھکانا۔

الغَيْثُومُ: بچو۔ ہانسی۔ الغَيْثِيُّ: گورخر۔

الغُضْمَانُ: جہاری کا بچہ۔ سانپ۔ سپولیا۔ اژدھے کا بچہ۔

أَبُو غُضْمَانَ: سانپ۔

غَفَنٌ: (ن) غَفْنَا وَغَفَانًا وَغَفُونًا فِي الْعَجَلِ: پہاڑ پر چڑھنا (.....) وَعَفَنَ الثَّوْبُ: کپڑے کو دھوئی دینا۔ عَفَّتْ وَعَفَّتِ النَّارُ: آگ سے دھواں نکلنا۔ کہا جاتا ہے "غَفِنَ عَلَيَّ الْقَوْمُ" یعنی فساد پیدا کر دیا۔

عَفِينٌ: (س) غَفْنَا: الثَّوْبُ: کپڑے کا خوشبودار ہونا۔

تَعَفَّنَ: دھوئی لگنا۔ العُفَانُ: بھس۔ غبار۔ دھواں۔ نج عَوَائِرُ۔ العَفْنُ: دھواں غبار چھوٹا بت۔

العَفِينُ وَالْمَعْفُونُ: دھواں لگنے سے بگڑا ہوا کھانا۔

العَفْنُ: ناظم مال۔ رنگی ہوئی روٹی۔ المَعْفَنُ: مفتح۔ بڑی ڈاڑھی والا۔

العَفُونُ: ڈاڑھی..... مِنَ المَطَرِ أَوْ الرِّيحِ: بارش یا ہوا کی ابتداء نج عَفَائِنٌ۔

عَفَا يَعْتَوُ عَفْوًا وَعَفَى يَعْفِي وَيَعْفَى وَعَفَى يَعْفِي عَفِيًّا وَعَفِيًّا وَعَفِيًّا: فساد۔ کفر یا کبر میں مبالغہ کرنا۔ صفت غَابٌ۔ نج عَفَاةٌ وَعَفِيٌّ وَعَفِيٌّ۔

العَفْوَةُ: زلف دراز۔ نج عَفْفٌ۔

الأَعْفَى: سیاہی مائل رنگ والا۔ بے وقوف۔ بہت بالوں والا۔

العَفْوَاءُ: بچو۔ العَفِيَّانُ: نر بچو۔

عَجَجَ: (ن ض) عَجَجًا وَعَجِيحًا: چلانا۔ آواز بلند کرنا..... السَّنَاقَةُ: أَوْ ثَنِي كَو "عَسَاج عَسَاج" کہہ کر ہانکنا (.....) وَأَعَجَّتْ (السَّرِيحُ: ہوا کا غبار اڑانا۔ کہا جاتا ہے "لَمْ تَزَيْحَةُ تَعَجَّ فِي الْمَسْجِدِ" اس کی بو ہے جو مسجد میں بھڑک اٹھتی ہے۔

عَجَّجَ الْعَبَارُ: غبار اڑانا..... البَيْتُ مِنْ

<p>العَجْوُورُ: ہوا کی وجہ سے ریت میں دھاری ج عجایو۔ العَجْفُورُ: عورت کے سر پر باندھنے کا کپڑا۔ اوڑھنی۔ پگڑی۔ المُعَجَّرُ: تمام بندھا ہوا۔ عَجْرَد: ۵۵ تنگا کرنا۔ تَعَجْرَد: ۵۵ تنگا ہونا۔ صفت مُعَجْرَد۔ العَجْرَد: ہلکا پھلکا تیز۔ سخت۔ عضو تاسل۔ العَجْرَد: عضو تاسل۔ العَجْرَد: دلا رور۔ تنگا۔ العَجْرَد: بد زبان عورت۔ تَعَجْرَف: تکبر کرنا۔ سرکشی کرنا۔ العَجْرَفَة: تکبر۔ کلام میں اکھڑین۔ کہا جاتا ہے "لَمْ يَحْمَلْ عَجْرَفَةً وَعَجْرَفِيَّةً لِي الْمَشِي" یعنی اُونٹ چلنے میں لا پ رواہ ہے۔ عَجْرَافِ الذَّهَرِ: عجراہِ فُفَّه: حوادث۔ عَجْرَافِ المَطَرِ: عجراہِ فُفَّه: بارش کی شدت۔ عَجْرَمِ الرِّجْلِ: تیز دوڑنا۔ العَجْرَمِ: العَجْرَمِ: العَجْرَمِ: سخت آدمی۔ العَجْرَمِ: چھوٹے کانوں والا چھوٹے پتوں والا اندوں کی طرح سیاہ چھوٹے پھلوں والا درخت۔ العَجْرَمَة: اُونٹوں کا گلہ سو (۱۰۰) کا یا دو سو (۲۰۰) کا یا بیچاس سے سو (۱۰۰) تک کا۔ عَجْرَمَاتٌ وَعَجْرَمَاتٌ: (ن ک) عَجْوَزَا. المَرْأَة: عورت کا بڑھیا ہونا۔ عَجْرَمٌ: (ض) وَعَجْرَمٌ: (س) عَجْرَمَا وَعَجْوَزَا وَعَجْرَمَانَا وَمَعْجَرَا وَمَعْجَرَا وَمَعْجَرَة وَمَعْجَرَة عَنْ كَذَا: قادر نہ ہونا۔ طاقت نہ رکھنا۔ عاجز ہونا۔ کہا جاتا ہے "عَجْرَمٌ فَلَانٌ عَنِ الْعَمَلِ" یعنی بوڑھا ہو گیا۔ طاقت نہیں رکھتا۔ صفت عَجْرَمٌ۔ ج عَوَاجِزٌ وَعَجْوَزٌ. عَجْرَمَةٌ: عاجز کرنا۔ عجز کی طرف منسوب کرنا۔ روک دینا۔ المَرْأَة: عورت کا بڑھیا ہونا۔</p>	<p>عَجْرَمٌ: (ن) عَجْرَمَا. عَجْرَمَةٌ: گردن موڑنا السَّيْفِ: تلوار سے حملہ کرنا القَاضِي عَلَيْهِ: قاضی کا تصرف سے روک دینا۔ ه بِالْعَصَا: لاشی مارنے سے بدھی پڑنا۔ الشَّيْءِ: پھاڑنا (عَجْرَمًا وَعَجْرَمَانَا وَعَجْرَمَانَا): خوف سے جلدی گزرنا۔ عَجْوَرٌ: (س) عَجْوَرَا: موٹا ہونا۔ بڑے پیٹ کا ہونا۔ صفت اَعَجْوَرٌ الفَرَسِ: موٹا ہونا۔ سخت ہونا۔ تَعَجْوَرٌ بَطْنُهُ: موٹا پے کی وجہ سے پیٹ میں سلوٹ پڑنا۔ اِعْتَجِرٌ: تمام پیٹنا۔ اِعْتَجِرَتِ الْمَرْأَة: اوڑھنی ڈالنا۔ العَجْوَرُ: ابھار۔ مقدر جسم۔ العَجْوَرَة: گرہ (دھاگے یا لاشی یا بدن کی رگوں کی) کہا جاتا ہے "ذَكَرَ عَجْوَرَة وَبُحْرَة" یعنی اس کے خوب بیان کر دیئے یا اس کی ظاہر و پوشیدہ سب باتیں بیان کر دیں۔ العَجْوَرُ: خربوزہ کی ایک قسم۔ الاعْجَسُو: بڑے پیٹ والا۔ بہت بھرا ہوا کبڑا۔ مَوْنَتٌ عَجْوَاءٌ ج عَجْوَرٌ. العَجْوَاءُ: گرہ دار لاشی۔ العَجْوَارُ: گوندھے ہوئے آٹے کا چیرا کھانے والا۔ العَجْوَجِيرُ: گوندھے ہوئے آٹے کے پیرے۔</p>	<p>الذَّخَانُ: مکان کو دھوئیں سے بھر دینا۔ تَعَجَّجٌ: دھوئیں سے بھر جانا۔ العُجْبَة: ایک قسم کا کھانا جو انڈا آٹا اور گھی یا تیل سے تیار کیا جاتا ہے۔ خاگین۔ العَجْجَاجُ: غبار۔ دھواں۔ بے وقوف۔ ادنیٰ لوگ۔ واحد العَجْجَاجَة. العَجْجَاجَة: غبار۔ بہت اُونٹ۔ کہا جاتا ہے "اَبْدَ عَجْجَاجَةً" یعنی جس کام میں تمھارا سے رک گیا "لَفَّ عَجْجَاجَتَهُ عَلَيْهِمْ" یعنی غارت ڈالا۔ العَجْجَاجُ: چیخنے والا۔ چلانے والا۔ عیار کو اُزَانُ والا۔ يَوْمَ عَجْجَاجٍ: گردوغبار کا دن۔ وَفِجْ مَعْجَاجِيحٌ: غبار اڑانے والی ہوا۔ عَجِبٌ (س) عَجِبْنَا مِنَ الْأَمْرِ وَلَهُ: تعجب کرنا۔ إِلَيْهِ: پسند کرنا۔ أَعْجَبَهُ وَعَجِبَهُ: تعجب میں ڈالنا۔ أَعْجَبَ بِالشَّيْءِ: خوش ہونا اور تعجب کرنا۔ أَعْجَبَ بِنَفْسِهِ: غرور کرنا۔ تکبر کرنا۔ کہا جاتا ہے "مَا أَعْجَبَهُ بِرَأْيِهِ" وہ اپنی رائے پر مغرور (اور یہ شاذ ہے اس لئے کہ فعل تعجب مجہول سے بتایا گیا ہے)۔ تَعَجَّبٌ وَاسْتَعْجَبَ مِنْهُ: تعجب کرنا۔ کہا جاتا ہے "تَعَجَّبِي فُلَانٌ" یعنی فلاں نے مجھ کو فریفتہ کر لیا اور تم میں ڈال دیا۔ العَجَبُ: ہر شے کا پچھلا حصہ۔ دم کی جز۔ ج عَجُوبٌ. العَجَبُ: فخر۔ غرور۔ خود بینی۔ پیش آمدہ چیز کا انکار۔ العَجَبُ: حیرانی۔ تعجب۔ مِنَ اللَّهِ: رضامندی ج اعجاب۔ العَجَابُ وَالْمُعْجَبُ وَالْعَجِيبُ: جس پر تعجب کیا جائے۔ العَجَابُ: تعجب کی حد سے متجاوز۔ مبالغہ کے لئے۔ عَجِبْتُ عَجَابًا عَجِبْتُ عَجِبٌ کہا جاتا ہے۔ العَجِيبَة: جس پر تعجب کیا جائے۔ ج عَجَابٌ. الاعْجُوبَة: جس پر تعجب کیا جائے۔ ج</p>
---	---	--

أَعْجَزَةٌ: عاجز کر دینا۔ عاجز پانا۔ أَعْجَزَهُ الشَّيْءُ: چیز کا قبضہ سے نکل جانا۔ أَعْجَزَ فِي الْكَلَامِ: اپنے مقصود کو بہترین اسلوب سے ادا کرنا۔

عَاجِزَةٌ مُعَاجِزَةٌ: مسابقت کرنا۔ عَاجِزُ الرَّجُلِ: عاجز ہونا۔

تَعَجُّزٌ: بجز کا دعویٰ کرنا..... التَّعَجُّزُ: اونٹ کے چوڑے پر سوار ہونا۔

إِسْتَعْجَزَهُ: عاجز پانا۔

العَجْزُ: تلوار (و العَجْزُ وَالْعِجْزُ وَالْعَجْزُ

وَالْعِجْزُ): بچھا حصہ۔ سرین۔ عَجْزُ نَيْبِ الشُّعْرِ: مصرعہ ثانی جِ أَعْجَازِ. بِنَاثِ

العَجْزُ: تیریں۔ أَعْجَازُ النَّخْلِ: درخت خرما

کی جڑیں۔ کہا جاتا ہے "زَكَبَ أَعْجَازُ

الْإِبِلِ" یعنی ذلت اور شقت میں مبتلا ہونا۔

رَجُلٌ عَجْزٌ وَعِجْزٌ: عاجز۔ کہا جاتا ہے "هُوَ

عُجْزَةٌ أَبِيهِ وَعِجْزٌ لَهُ" یعنی وہ اپنے باپ کا

آخری لڑکا ہے (مذکر و مؤنث واحد جمع سب

کے لئے) "وَلِدٌ بَعْجُزَةٌ" والدین کے بوڑھا

ہونے پر پیدا ہوا۔

العِجَازُ وَالْعِجَازَةُ: پٹھا جس سے تلوار کے

دستے کو باندھیں۔

العِجَازَةُ الْإِعْجَازَةُ: گلدی جس کو عورتیں

سرین پر باندھتی ہیں تاکہ بڑے معلوم

ہوں۔

العِجْزُ: بڑھیا۔ جِ عَجْزٌ وَعِجَازٌ.

العِجْزُ: شراب۔ مصیبت۔ کشتی۔ راستہ۔

بانڈی۔ کمان۔ آگ۔ موت۔ کھجور کا

درخت۔ اڈنٹی۔ سوئی۔ زمین۔ خرگوش۔

شیر۔ ہر چیز کا ہزار۔ کواں۔ دریا۔ بہادر۔

گائے۔ سوداگر۔ ڈھال۔ توبہ۔ تیل۔

بھوکا۔ تیردان۔ بڑا پیالہ۔ بھوک۔ دوزخ۔

لڑائی۔ تیزہ۔ بخار۔ خیمہ۔ آفتاب کا ہالہ۔

عورت کی قمیص۔ دنیا۔ بھیڑیا۔ جھنڈا۔

گدھ۔ رعشہ۔ گھوڑی۔ آسمان۔ گھی۔ گرم

ہوا۔ سال۔ آفتاب۔ خط۔ باٹ۔ صومند۔

بجو۔ گور۔ خرما دہ۔ بچھو۔ چاندی۔ قبلہ۔

مٹک۔ دیگ۔ قیمت۔ لشکر۔ کعبہ۔ عورت۔

کتا۔ مٹک۔ بادشاہ۔ دیگ کا پایہ۔ داہنا

ہاتھ۔ تلوار کی دھار۔ عافیت۔ پرہیزگاری۔

قبضہ۔ تلوار کی میخ۔ ایسام العجوز: جاڑے

کے آخر میں سات دن سخت سردی کے جس

کے چار دن فروری میں اور تین دن مارچ

میں ہوتے ہیں اور عام لوگ ان کو

"مُسْتَقْرَضَات" کہتے ہیں اور ان دنوں کے

نام یہ ہیں صِنٌّ. صِنْرٌ. وَبِرٌ. آمِرٌ. مَوْتَمِرٌ

مُعَلِّلٌ. مُضْفِي الْجَمْرِ يَأْكُفِي الظَّنَّ.

(بہت سے شعراء نے اپنے قصائد میں معانی

عجوز کے جمع کرنے کی کوشش کی ہے انہی

قصیدوں میں سے ایک قصیدہ کتاب کے آخر

میں لکھا گیا ہے۔

الاعْجَازُ: بڑے سرین والا۔ كَيْسٌ أَعْجَزُ:

بھری ہوئی تھیلی۔

العَاجِزُ: فاجِعٌ عَوَاجِزٌ. قُوْبٌ عَاجِزٌ: تنگ

کپڑا۔ امْرَأَةٌ عَاجِزٌ: عاجز عورت۔

العِجْزَاءُ: مؤنث أَعْجَازُ: ریت کا اونچا ٹیلہ۔

المِعْجِزُ: بڑا پیالہ۔

المِعْجَازُ: راستہ۔ ہمیشہ عاجز رہنے والا۔

المُعْجِزَةُ: خارق عادت جس کو اللہ تعالیٰ کسی

نبی کے ہاتھ سے ظاہر کر دے اور دوسرے

اس سے عاجز ہوں۔ جِ مُعْجِزَاتُ.

الصَّفْعُوزُ: مفتح۔ جس سے سوال میں اصرار

کیا جائے۔

العِجْزَةُ: عورت کی سرین۔ کبھی مرد کے لئے

بھی بولا جاتا ہے۔ جِ عِجْزَاتُ.

عَجَسَ: (ض) عَجَسًا. عَنِ حَاجِئِهِ: باز

رکھنا۔ عَجَسَ عَلَيَّ الشَّيْءُ: کسی چیز کو مضبوطی

سے پکڑنا۔

تَعَجَّسَ: پیچھے ہٹنا..... الأَمْرُ: کسی کام کے

درپے ہونا۔ پیچھا کرنا..... بِالْقَوْمِ: دیر کرنا۔

تَعَجَّسَهُ: راوی کو ضعیف سمجھنا۔ تَعَجَّسَهُ عَنِ حَاجِئِهِ: کسی کو اس کی ضرورت سے روکنا۔

السُّجْسَةُ: رات کی تاریکی۔ رات کی ایک

ساعت۔

العَجُوسُ: بوجھل بادل۔ لگا تار بارش۔

العَجَاسَاءُ: اونٹوں کا بڑا گله۔

المُعْجِسُ: کمان کا قبضہ۔

عَجَجَعَ عَجَجَعَةً: بہت چیخنا۔

العَجَجَاعُ: بہت چیخنے والا..... مِنَ الْغَيْلِ:

اصیل گھوڑا۔ عمر رسیدہ گھوڑا۔

العَجَجَعَةُ: چیخ عَجَاجُ.

عَجَفَ: (ن) عَجُوفًا: کھانا چھوڑ دینا۔

عَجَفَ: (ض) عَجْفًا وَعَجُوفًا وَعَجَفَ

نَفْسَهُ عَنِ الطَّعَامِ: باوجود بھوک کے

دوسرے کو کھلانے کی غرض سے کھانے کو چھوڑ

دینا..... نَفْسَهُ عَلَيَّ الْمَرِيضِ: صبر سے

تیار داری کرنا۔ نَفْسَهُ عَلَيَّ فُلَانٍ: گمراہی کو

برداشت کرنا اور مواخذہ نہ کرنا۔

عَجَفَ: (ن ض) وَأَعَجَفَ الذَّابَّةَ: جانور

کو لاغر کرنا۔ أَعَجَفَ الْقَوْمُ: دبے

جانوروں کا مالک ہونا۔ عَجَفَ عَنِ فُلَانٍ:

کسی سے دور ہونا۔ أَعَجَفَ بِنَفْسِهِ عَلَيَّ

الْمَرِيضِ: صبر سے تیار داری کرنا۔

عَجَفَ: (س) وَعَجَفَ: (ك) عَجْفًا:

کمزور ہونا۔ دبلا ہونا۔ صفت مذکر عَجَفَ

وَأَعَجَفَ اور مؤنث عَجَفَ وَعَجَفَاءُ جِ

عِجَافٌ..... الْبِلَادُ: بارش نہ ہونا۔ کہا جاتا

ہے "نَزَلْنَا فِي بِلَادٍ عِجَافٍ" غیر بارش

شدہ شہروں میں اترے۔

عَجَفَ الرَّجُلُ: آسودگی سے کم کھانا.....

نَفْسَهُ عَنِ الطَّعَامِ: کھانا چھوڑ دینا۔

العِجَافُ: اندر آن۔ زمانہ۔ جمع عَجَفَاءُ کی

خلاف قیاس۔

التَّعَجُّفُ: جنگی حالت۔

العَجِيفُ: لاغر دہلا۔ جِ عَجِيفِي.

عَجَلٌ: (س) عَجَلًا وَعَجَلَةً: جلدی کرنا۔

کہا جاتا ہے "عَجَلُ بِهِ إِلَيْهِ" اس نے ایک

کام سے دوسرے کی طرف جلدی کی.....

الأَمْرُ: دیر سمجھ کر دوسرا کام کر لینا۔

عَجَلٌ: جلدی کرنا..... هُ: سبقت کرنا۔

بِرَاحَتِهِ كَرْنَا..... لَمْ مِنَ الصَّمْنِ كَذَا: پیش

کرنا۔ اللّٰخَم: گوشت کو جلدی پکانا۔

أَعْجَلَ: سبقت کرنا۔ براہِ عَجَلت کرنا۔ أَعْجَلَ الشَّيْءُ: جلدی کھانا۔ أَعْجَلَتِ النَّاقَةُ: ناقص بچہ گرا دینا۔

عَاجَلَهُ مُعَاجَلَةً: بذنبہ: جلدی مواخذہ کرنا اور مزادینا..... ہُتْضْرِبَةُ: مارنے میں سبقت کرنا۔ آگے بڑھ جانا۔

تَعَجَّلَ فِي الْأَمْرِ: جلدی کرنا..... الْأَمْرُ: جلدی کام کرنا۔

إِسْتَعْجَلَهُ: براہِ عَجَلت کرنا۔ جلدی کرنے کا حکم دینا۔ سبقت کرنا۔ آگے بڑھ جانا۔

الْعَجَلُ: بچھڑا۔ عَجُولٌ وَعَجَلَةٌ وَعِجَالٌ الْعَجَلَةُ: پچھیا ریت۔ عَجَلٌ وَعِجَالٌ الْعَجَلُ وَالْعَجَلَةُ وَالْعِجَالُ: جو جلدی کیا جائے۔ کھانا جو موجود ہو۔ مہمان کے لئے جو جلدی تیار کیا جائے۔

الْعَجَلَةُ: جلدی۔ ہلکا پن۔ گارا۔ بچھڑ۔ سامان لانے کی گاڑی۔ رہت۔ عَجَلٌ وَعِجَالٌ وَعِجَالٌ وَعِجَالٌ الْعَاجِلُ وَالْعِجَالُ وَالْعَجَلُ: جلد باز۔

الْعَاجِلَةُ: مؤنث عَاجِلٌ: دنیا۔ الْعِجُولُ: بچھڑا۔ عَجَا جِئِلٌ الْعِجَالَانُ: مؤنث عَجَلِيٌّ: عَجَالِيٌّ وَعِجَالِيٌّ وَعِجَالٌ وَالْعِجُولُ عَجَلٌ وَالْعِجَالُ عِجَالٌ: جلد باز۔

الْعِجُولُ وَالْعِجَالُ: بہت زیادہ جلد باز۔ الْعِجُولُ: موت۔ بچے کو کھونے والی۔ متحیر عورت۔

الْمُعْجَلُ: ناشتہ پانی جو مہمان کے سامنے جلدی سے پیش کیا جائے۔

الْمُعْجَلَةُ وَالْمُعْجَلِيُّ وَالْمُعْجَلِيٌّ: تیز چال۔ کہا جاتا ہے "سَارَا الْمُعْجَلِيُّ" تیز چال چلا اور اس کا ضد ہونے لگا۔

السَّمْعَجَالُ: براہِ عَجَلت کرنے والا۔ سبقت کرنے والا۔ عَجَا جِئِلٌ۔ عَجَا جِئِلٌ الطَّرِيقُ: مختصر راستے اِسْرَاقَةٌ مُعْجَالٌ: وقت سے پہلے جتنے والی عورت۔

طَرِيقٌ مُسْتَعْجَلَةٌ: مختصر راستہ۔ قریب کا راستہ۔

الْمُعْجَلُ: رِقْرِقاً مَآءٍ كَالرَّاءِ۔ عَجَمٌ (ن) عَجْمًا وَعِجْمًا. الْفُؤْدُ: دانت سے کاٹ کر لکڑی کی نرمی سختی معلوم کرنا..... السَّيْفُ: تجرے کے لئے تلوار کو حرکت دینا..... الشَّيْءُ: امتحان کرنا۔ آزمائش کرنا۔

صَفْتُ عَاجِمًا: عَجْمًا (عَجْمًا) الْكِتَابُ أَوْ الْحُرُوفُ: فقط لگانا..... الْكِتَابُ: حروف پر اچھی طرح وقف نہ کرنا۔ عَجَمَتُهُ الْأُمُورُ: عادی بنانا۔ کہا جاتا ہے "مَا عَجَمَتُهُ عَيْنِي مُنْذُ كَذَا" میری آنکھوں نے اس کو فلاں وقت سے نہیں دیکھا ہے۔ "زَايْتُ فَلَانًا فَجَعَلْتُ عَيْنِي تَعَجُّمَهُ كَأَنَّهَا تَعْرِفُهُ وَعَجَمَ غُودَ فَلَانٍ" یعنی اس کی آزمائش کی اور اس کے حال کی تحقیق کی۔

أَعْجَمَ وَعَجَّمَ الْكِتَابَ: اعراب نہ لگانا۔ فقط اور حرکات لگا کر یا تفسیر کر کے ابہام کو دور کرنا۔ أَعْجَمَ الثَّيَابَ: دروازے میں تالا لگانا۔ الْكَلَامُ: عجمی زبان میں گفتگو کرنا۔

عَجَمٌ (ك) عَجْمَةٌ: کثت ہونا۔ صفت أَعْجَمَ: مؤنث عَجْمَاءُ. عَجْمٌ عَاجِمَةٌ: تجرہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "عَاجِمْتُ الْأُمُورَ وَعَاجِمْتَنِي" میں نے امور کی آزمائش کی اور امور نے میری۔

تَعَاجَمَ الْقَوْمُ: کناہہ کرنا۔ توریہ کرنا۔ الرَّجُلُ: اجنبی ہونا۔ عجمی ظاہر کرنا۔ اِنْعَجَمَ: عَلَيْهِ الْكَلَامُ: دشوار ہونا۔ مبہم ہونا۔ اِسْتَعْجَمَ: بجز سے سکت ہونا۔

..... الْقِرَاءَةُ: پڑھنے میں قادر نہ ہونا..... عَلَيْهِ الْكَلَامُ: کلام کا دشوار ہونا۔ مبہم ہونا۔

الْعَجْمُ وَالْعُجْمُ: دُم کی جڑ۔ الْعَجْمُ: ملک فارس و فارسی لوگ (.....) وَالْعُجْمُ: غیر عرب۔

الْعَجْمُ وَالْعُجْمُ: چھوہارے کی گھٹلی۔ کہا جاتا ہے "لَيْسَ لِهَذَا الرُّمَانِ

عَجْمٌ" واحد عَجْمَةٌ وَعِجَامَةٌ. الْعِجْمَةُ: بھجور کا درخت۔

الْعَجْمَةُ: اسم مرآة۔ سخت چٹان۔ عَجَمَات. الْعِجْمَةُ وَالْعِجْمَةُ: ابہام۔ کھول کر نہ بیان کرنا۔ ریت کا تودہ۔

الْأَعْجَمُ: غیر عربی اگرچہ عجمی زبان فصیح بولتا ہو۔ جو صاف کھول کر نہ بیان کرے اگرچہ عربی ہو۔ گونگا۔ عَجْمٌ عَجْمُونَ. أَعْجَمٌ. الْعِجْمَاءُ: مؤنث أَعْجَمٌ: چوپایہ عَجْمًا وَأَت: ریت کا ٹیلہ جس میں درخت نہ ہو۔

الْأَعْجَامُ: غیر عرب۔ الْعِجَامُ: بڑی چگاڑ۔ الْإِعْجَمِيُّ وَالْعِجْمِيُّ: غیر عرب۔ جو عجم کی جانب منسوب ہو۔

الْقَوَاجِمُ: دانت۔ مفرد عَاجِمَةٌ. رَجُلٌ ضَلَبَ الْمُعْجَمَ: آزمائش کے وقت سخت۔ الْمُعْجَمُ: منبع۔ مصدر عِجْمِيٌّ حُرُوفٌ حِجْمِيٌّ بَابٌ مُعْجَمٌ: بند دروازہ۔ لغت کی کتاب کو بھی مُعْجَمٌ: کہتے ہیں۔

عَجْنٌ: (ن ض) عَجْنًا. الدَّقِيقُ: آنا گوندھنا۔ عَلِيٌّ الْعَصَا: لاشعری پر ایک لگانا..... الرَّجُلُ: دونوں ہاتھوں کا ٹیک لگا کر اٹھنا۔ صفت عَاجِنٌ عَجْنٌ: کہا جاتا ہے "فَلَانٌ عَجِنٌ وَخَيْرٌ" یعنی بوڑھا ہو گیا۔

عَجِنٌ. الرَّجُلُ: عمر رسیدہ ہونا۔ اِعْتَجِنَ. الدَّقِيقُ: آنا گوندھنا..... فَلَانٌ: خیر بنانا۔

تَعَجَّنَ. الشَّيْءُ: گندھا جانا۔ خیر ہونا۔ الْعِجْنُ: بِن الْعِجَالِ: موٹا اونٹ۔ الْعِجْنَاءُ: کم دودھ والی اونٹنی۔ بہت موٹی اونٹنی۔

الْعِجْنُ: گندھا ہوا آنا۔ اِعْجَرَا. عَجْنٌ الْعِجْنُ: ڈھیلے ڈھالے بدن کے مرد یا عورت۔

العَجِيْنَةُ: گندھے ہوئے آٹے کا ایک پیرا۔
بَجْرًا۔ بے وقوف۔ جماعت۔ اُمُّ عَجِيْنَةٍ:
گلدھ۔

العِجْبَانُ: گردن۔ سرین۔ ٹھوڑی کے نیچے کا
حصہ۔ خصیتیں اور دبر کا درمیانی حصہ۔ ج
عُجْبُنٌ وَأَعِجْبَةٌ.

العِجْبَانُ: بہت آٹا گوندھنے والا بے وقوف۔
عَاجِبَةُ الْمَكَانِ: مکان کا وسط حصہ۔

المِجْعَنُ وَالْمِغْجِنَةُ: آٹا گوندھنے کا برتن۔
عِجْهٌ. بَيْنَهُمَا: جدائی کر دینا۔

تَعَجُّبَةٌ: جاہل بنا۔ الامْرُ: ملتیس ہونا۔
العُجْبَاهِنُ: سببی۔ جو خالص النسب نہ ہو۔

خادم۔ باورچی۔ ج عَجْبَاهِنَةٌ.
عَجْبَانِيٌّ عَجْوًا الْبَعِيْرُ: اونٹ کا بلبلانا اور

سرکش ہونا۔ عَجِبَتِ الْاُمُّ الْوَالِدَ: ماں کا بچے
کو وقت رضاعت کے بعد دودھ پلانا۔

دودھ پلانا۔ فُلَانٌ قَسَا: منہ کھولنا۔ عَجَاهُ
السَّمْنُ: دودھ کا غذا ہونا۔ کہا جاتا ہے "لَقِيْ

فُلَانٌ مَا عَجَاهُ" یعنی سختی میں مبتلا ہوا (.....)
وَعَاجِلِيٌّ الْوَالِدَ: ماں کے علاوہ کسی دوسرے

کا دودھ پلانا یا دودھ روک دینا اور غذا لینا۔
عَجَا وَعَجِيٌّ. وَجْهَةٌ: منہ ٹیڑھا کرنا۔

عَجِيٌّ (س) عَجِيٌّ الصَّبِيُّ: دودھ کے
علاوہ کسی دوسری چیز سے پرورش پانا۔

العَجِيٌّ: ماں کو کھونے والا۔ دوسرے کے
دودھ سے پرورش پانے والا۔ مَوْتٌ عَجِيْبَةٌ

ج عَجْبَانِيًّا.
العَجِيٌّ: بچہ کہ جس کی ماں نے وقت کے بعد

دودھ پلایا ہو۔ بچہ کہ جس نے دوسرے کے
دودھ سے پرورش پائی ہو۔ مَوْتٌ عَجِيْبَةٌ ج

عَجْبَانِيًّا وَعَجْبَانِيًّا.
العَجْوَةُ وَالْعَجَاوَةُ: عمدہ قسم کی کھجور۔

العُجْبَاوَةُ وَالْبِعْجَاوَةُ وَالْعَجْوَةُ: دودھ جو کہ
یتیم کو پلائیں۔

عَجِبَتْ تَعَجِيٌّ عَجْبَانِيًّا الْمَرْأَةُ صَبِيْهَا:
عورت کا بچے کو دودھ پلانا۔

العَجَابِيَّةُ وَالْعَجَابِيَّةُ: عمدہ قسم کی کھجور۔ جانور

کے بندوبست کا پیمانہ عَجِيٌّ وَعَجِيٌّ
وَعَجْبَانِيًّا.

عَدٌّ: (ن) عَدًّا وَعَدَّادًا الشُّيْ: شمار کرنا۔
گننا۔ گمان کرنا۔ کہا جاتا ہے "عَدَّدْتُ زَيْدًا

صَادِقًا" زید کو میں نے سچا گمان کیا۔
عَدَّدَ. المَيْتَ: خوبیاں شمار کرنا۔ خوبیاں

بیان کرنا..... الشُّيْ: شمار کرنا۔ عدد والا کر
دینا..... السَّمَالُ: زمانے کے لئے ساز و

سامان بنانا۔
أَعَدَّهُ لِأَمْرٍ: تیار کرنا۔ حاضر کرنا۔

عَادَهُ عِدَادًا وَمُعَادَةً: لڑائی میں مقابلہ کرنا
..... الشُّيْ الْقَوْمَ: چیز کا قوم پر برابر برابر

تقسیم ہونا۔
تَعَدَّدَ وَتَعَادَدَ: عدد میں زائد ہونا۔ کہا جاتا ہے

"هُمَّ يَتَعَدَّدُونَ وَيَتَعَادَدُونَ عَلَى أَلْفٍ" یعنی
وہ ہزار سے زائد ہیں۔

إِعْتَدَ: شمار ہونا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا فِئِي لَا
يُعْتَدُّ بِهِ" یعنی یہ ایسی چیز ہے جس کا اعتبار نہیں

کیا جاتا اور اس کی طرف التفات نہیں کیا
جاتا۔ "إِعْتَدَ الْأَمْرُ بِجَارَةٍ" یعنی تجارت کا

گمان کیا۔ عوام کہتے ہیں "إِعْتَدَ بِنَفْسِهِ" یعنی
اپنے نفس پر اعتماد کیا۔

إِسْتَعَدَّ. لِلْأَمْرِ: تیار ہونا۔
عدد صحیح زیرو سے لے کر تمام گنتی مثبت و منفی

مثلاً..... ۱۲۳۰۔
العَدَادُ الزَّوْجُ أَوْ الْمَزْدُوجُ: جو ۲ کے علاوہ

پر تقسیم نہ ہو جیسے ۱۲۳۔ المَفْرَدُ: زوج کا
الٹ جو دو پر تقسیم نہ ہو جیسے ۵۳۔ الْعَدْدُ

الْأَوْلَى أَوْ الْأَوَّلُ أَوْ الْأَخْلَى: جو اپنے
آپ پر یا ایک پر تقسیم ہو۔

العَدْدُ الْكُسْرِيُّ أَوْ الْكُسْرُ: جو ایک کا ایک
جز یا کئی جز ہوں جیسے ۱/۳۔

العَدْدُ الْمُؤَجِبُ: جس کی طرف (+ جمع) کا
اشارہ ہو۔

والعدد السالب: جس کی طرف (-) نفی کا
اشارہ ہو۔

العَدْدُ التَّخْيَلِيُّ أَوْ الْوَهْمِيُّ: فرضی عدد سمجھنے

کے لئے۔

العَدْدَانِ الْمُتَقَابِلَانِ: دو عدد جن کی حسابی
قیمت ایک ہو اور ان کا اشارہ مختلف ہو جیسے

+5۔ -5۔

العَدْدَانِ الْأَوَّلِيَانِ فِيمَا بَيْنَهُمَا: وہ دو عدد
جن کو تقسیم کرنے والا مشترک صحیح عدد نہ ہو

جیسے ۹۲۔ الْأَعْدَادُ الْمُتَبَايِنَةُ عِنْدَ
العرب: جن کو اکٹھے کوئی کسر یا عدد صحیح شمار نہ

کرنے دیگر صورت میں اعداد مشترکہ ہوں
گے۔

الأَعْدَادُ الْجَبْرِيَّةُ أَوْ الْمُؤَجَّهَةٌ: وہ اعداد
جن کی طرف اشارہ (+) یا (-) ہو اور اس

کے ساتھ صفر ملا ہو۔
العَدْدُ: شمار۔ گنتی۔ گنا ہوا..... مِنْ الْإِنْسَانِ:

آدمی کی عمر کے سال۔ ج أَعْدَادُ.
العَدَادُ: عطاء..... دیا گئی کا اثر۔ ہمسر۔

حریف۔ موت کا وقت۔ عیشی کا دن۔ مکان
کی آواز۔ شمار۔ کہا جاتا ہے "هُوَ فِئِي

عِدَادِهِمْ" یعنی مجملہ ان کے ہے (.....)
والعَدْدُ مِنَ الْوَجْعِ: وقت مقررہ پر درد کا

بڑھنا۔ کہا جاتا ہے "بِهِ مَرَضٌ عِدَادٌ" اس کا
مرض وقت مقررہ پر عود کرتا ہے۔

العَدَادُ: گاڑیوں کے چلنے کی مسافت کو معلوم
کرنے کا میٹر یا استعمال شدہ بجلی کو یا استعمال

شدہ پانی کو پیمائش کرنے کا میٹر۔
العَدُّ: جاری پانی جو منقطع نہ ہو۔ کثرت۔ کہا

جاتا ہے "هَذَا بَرُضٌ مِنْ عِدَّةٍ" یہ بہت میں
سے تھوڑا ہے۔ پرانا۔ کنواں۔ ہمسر۔ کہا

جاتا ہے "هُوَ عِدْكَ" وہ تمہارا ہمسر ہے۔
ج أَعْدَادُ.

العِدَّةُ: جماعت۔ چند۔ تعداد۔ کہا جاتا ہے
"عِنْدِي عِدَّةٌ مَحْبُوبٌ" میرے پاس کتابوں

کا ایک ڈھیر ہے۔ "عِدَّةُ الْمَرْأَةِ" عورت
کے طلاق یا شوہر کی وفات پر سوگ کا زمانہ۔

ج عِدَّةُ.
العِدَّةُ: تیاری۔ کہا جاتا ہے "تُحَوَّنُوا عَلَيَّ

عِدَّةً" تیار رہو۔ سامان حرب وغیرہ۔ کہا جاتا

ہے "اَتَّخَذَ لِلْأَمْرِ عِدَّتَهُ" معاملے کے لئے سامان کو لے لیا ج عِدَّةٌ (.....) (والعِدَّةُ) : مہا۔ پھنسیاں جو چہرے پر نکلتی ہیں۔

العَدَانُ والعِدَّانُ : کسی چیز کا زمانہ و موسم یا زمانے کا اول و بہتر۔ کہا جاتا ہے "كُنَّانِ ذَلِكَ فِي عِدَّةِ الشَّبَابِ وَعَلَى عِدَّةِ مِلْكِهِ" ج عِدَّةِ دِينِ۔

العِدَّةِيَّةُ : عدد کی جانب منسوب۔ جو چیز شمار سے تپتی جائے۔

العِدْيَةُ : شمار۔ عدد۔ کہا جاتا ہے "مَا أَخْفَرَ عِدْيَتِهِمْ" ان کا شمار کس قدر کثیر ہے۔ شمار کیا ہوا۔ ہمسر۔ ہم مثل۔ حصہ۔ کہا جاتا ہے

"هَذِهِ الذَّرَاهِمُ عِدْيَةُ هَذِهِ" یعنی یہ ذراہم اس کے مقدار میں ہیں۔ العِدْيَةُ مِنَ الْقَوْمِ : جو قوم میں شمار کیا جائے اَيَّامَ عِدْيَتِهِ : چند دنوں ج عِدَائِدِ الْعِدَائِدِ : بہت سے ہم مثل۔ تقسیم شدہ مال۔ میراث۔

العِدْيَةُ : حصہ۔

المِعْدَانُ : پورے سامان والا۔

عِدْرٌ : (ن) عِدْرًا وَعِدْرَةٌ : جرات کرنا۔ دلیری کرنا۔

عِدْرٌ : (س) عِدْرًا وَعِدْرًا : اَلْمَكَانُ : پانی زیادہ ہونا۔ اِعْتَدِرَ الْمَطَرُ : بکثرت برسا۔

العَادِرُ : قا۔ جھوٹا۔ بھلسنے والا۔

العِدَارُ : علاج۔

العِدْرُ والعِدْرُ : موسلا دھار کثیر بارش۔

عِدْسَةٌ : (ض) عِدْسًا : خدمت کرنا۔

عِدْسُ التَّوَابِئِ : جانوروں کو چراتا..... الشَّيْءُ : سخت روندنا..... عِدْسًا وَعِدْسَانًا وَعِدْسَانًا وَعِدْسَانًا : فِي الْأَرْضِ : جانا۔ کہا جاتا ہے "عِدْسَتْ بِهَ التَّيْبَةُ" موت اس کو لے گئی۔

عِدْسٌ : پھنسیوں والا ہونا۔ صفت مَعْدُوسٌ۔ عَادَسٌ : الزَّجَلُ : ہمیشہ سفر میں رہنا۔

العِدْسُ : مسور۔ واحد عِدْسَةٌ الْعِدْسَةُ : پھنسی۔ الْعِدْسَةُ وَالْعِدْسِيَّةُ عِنْدَ عُلَمَاءِ الطَّبِيعَةِ : شخصے کے کلکڑے جو بطور آلات نظر

کے استعمال کئے جاتے ہیں۔ عِدْسٌ : ٹھنڈے پتھر یا کنگن کے لئے اسم صوت۔ نام ٹھنڈے۔

عِدْفٌ : (ض) عِدْفًا وَتَعْدَفٌ : تھوڑا کھانا۔ کہا جاتا ہے "مَا عِدْفْتُ أَوْ مَا تَعْدَفْتُ الْيَوْمَ" یعنی آج میں نے تھوڑا بھی نہیں کھایا۔ چہ جائیکہ کثیر۔

اِعْدَفٌ : التَّوْبُ : کپڑے کا کلرا لینا۔ العِدْفُ : تھوڑا عطیہ۔ تھوڑا چارہ۔ کہا جاتا ہے "مَا دُقْنَا عِدْفًا وَعِدْفًا وَعِدْفًا وَعِدْفًا وَعِدْفًا" ہم نے کھانے پانی سے کچھ بھی نہیں چکھا۔

العِدْوُفُ : تھوڑا چارہ۔ ج عِدْفٌ۔ العِدْفُ : لوگوں کی جماعت۔ رات کا ایک حصہ۔

العِدْفَةُ : لوگوں کی جماعت۔ ہر چیز کا کلرا اس سے پچاس تک (.....) والعِدْفَةُ : زمین کے اندر درخت کی جڑ۔ ج عِدْفٌ۔

العِدْفُ : ہر چیز کا کلرا۔

عِدْقٌ : (ض) عِدْقًا وَعِدْقِي (س) عِدْقًا وَعِدْقٌ وَأَعْدَقٌ : حوض یا کنوئیں کے کنارے میں کسی چیز کی تلاش کرنے کے لئے ہاتھ ڈالنا..... بَطْنِيَّةٌ : کسی کام کو اپنی غالب رائے سے کرنا کہ اس کا یقین نہ ہو۔

العِدْقَةُ : ڈول نکالنے کا سر شاخ کا نائج عِدْقٌ۔

العِدْوَقُ وَالْعِدْوَقَةُ : ڈول نکالنے کا سر شاخ کا نائج عِدْقٌ۔

عِدْكٌ : (ن) عِدْكًا : الصُّوفُ : اُون ڈھننے کے لئے ڈنڈے سے مارنا۔

المِعْدَكَةُ : اُون ڈھننے کا ڈنڈا۔

عِدْلٌ : (ض) عِدْلًا : السَّهْمُ : تیر کو سیدھا کرنا۔ فَلَانًا يَفْلَانُ : برابری کرنا۔

بِرِيَّةٍ : شُرْكٌ : اَلطَّرِيقُ : میزھا ہونا۔

(.....) عِدْلًا وَعِدْوَلًا : اَلْيَهُ : رجوع کرنا۔

واپس ہونا فَلَانًا : موازنہ کرنا۔ هُ فِي الْخَمْلِ : ساتھ سوار ہونا۔ کہا جاتا ہے "مَا يَعْدِلُكَ عِدْيِي شَيْءٌ" تمہارے مشابہ کوئی چیز نہیں

ہے۔ عِدْلٌ : موازنہ۔ عِدْلًا : موازنہ کرنا۔ هُ فِي الْخَمْلِ : ساتھ سوار ہونا۔ کہا جاتا ہے "مَا يَعْدِلُكَ عِدْيِي شَيْءٌ" تمہارے مشابہ کوئی چیز نہیں

ہے۔ عِدْلٌ : موازنہ۔ عِدْلًا : موازنہ کرنا۔ هُ فِي الْخَمْلِ : ساتھ سوار ہونا۔ کہا جاتا ہے "مَا يَعْدِلُكَ عِدْيِي شَيْءٌ" تمہارے مشابہ کوئی چیز نہیں

ہے۔ عِدْلٌ : موازنہ۔ عِدْلًا : موازنہ کرنا۔ هُ فِي الْخَمْلِ : ساتھ سوار ہونا۔ کہا جاتا ہے "مَا يَعْدِلُكَ عِدْيِي شَيْءٌ" تمہارے مشابہ کوئی چیز نہیں

(.....) عِدْلًا وَعِدَالَةٌ وَعِدْوَلَةٌ وَمَعْدَلَةٌ وَمَعْدَلَةٌ : اَلْأَصَافُ : صفت عادل ج عِدْوَلٌ۔

عِدْلٌ : (ك) عِدَالَةٌ : عادل ہونا۔ گواہی کے قابل ہونا۔

عِدْلٌ : (س) عِدْلًا : ظلم کرنا۔

عِدْلُ الشَّاهِدِ : معتبر جاننا۔ الشَّعْرُ : شعر درست وزن پر کہنا۔ السَّخَاعُ : سامان کو دو حصوں میں برابر کرنا۔ دو گھڑی بنانا۔ کہا جاتا ہے "شَرِبَ حَتَّى عِدْلٌ" یعنی اس قدر پیا کہ اس کا پیٹ مانند گھڑی کے ہو گیا (وَأَعْدَلُ) الشَّيْءُ : سیدھا کرنا۔ ہموار کرنا۔

عَادَلَهُ عِدْلًا وَمَعَادَلَةً : موازنہ کرنا۔ هُ فِي الْمَحْمُولِ : ساتھ سوار ہونا۔ الشَّيْءُ : میزھا ہونا۔ فِى الْأَمْرِ : متروک ہونا۔ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ : برابری کرنا۔ کہا جاتا ہے "عَادَلَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ" جب کہ دو امر پیش آئیں اور یہ سمجھ میں نہ آئے کہ کون سا اختیار کرے "قَطَعَ الْعِدَالُ فِي أَمْرِهِ" یعنی پختہ ارادہ کر لیا۔

إِعْدَلُ عَنِ الطَّرِيقِ : ہٹ جانا۔

إِعْدَلُ : سیدھا ہونا۔ دو حالتوں میں توسط اختیار کرنا۔

العَادِلُ : قا۔ شُرْكٌ۔ ج عِدْوَلٌ۔ العِدْلُ : اَصَافٌ : عادل۔ کہا جاتا ہے "زَجَلُ عِدْلٍ وَأَمْرًا عِدْلٌ وَعِدْلَةٌ وَرِجَالُ عِدْلٍ" نظیر۔ مثال۔ ج عِدَالُ۔ العِدْلُ : بیانا۔ بدلہ۔ اُمور میں توسط۔

برابری۔ اُمور میں توسط۔ سیدھا ہونا۔

العِدْلُ : نظیر۔ مثال۔ ج عِدَالُ۔ العِدْلُ : موازنہ۔ موازنوں کی برابری۔

العِدْلَةُ وَالْعِدَالَةُ : معتبر گواہان اور بقول بعض عِدْلَةٌ وَاحِدٌ ہے اور عِدَالَةٌ جَمْعٌ۔

العِدْلُ : موازنہ۔ موازنوں کی برابری۔

العِدْلَةُ وَالْعِدَالَةُ : معتبر گواہان اور بقول بعض عِدْلَةٌ وَاحِدٌ ہے اور عِدَالَةٌ جَمْعٌ۔

العِدْلُ : موازنہ۔ موازنوں کی برابری۔

العِدْلَةُ وَالْعِدَالَةُ : معتبر گواہان اور بقول بعض عِدْلَةٌ وَاحِدٌ ہے اور عِدَالَةٌ جَمْعٌ۔

العِدْلُ : موازنہ۔ موازنوں کی برابری۔

العِدْلَةُ وَالْعِدَالَةُ : معتبر گواہان اور بقول بعض عِدْلَةٌ وَاحِدٌ ہے اور عِدَالَةٌ جَمْعٌ۔

العِدْلُ : موازنہ۔ موازنوں کی برابری۔

العِدْلَةُ وَالْعِدَالَةُ : معتبر گواہان اور بقول بعض عِدْلَةٌ وَاحِدٌ ہے اور عِدَالَةٌ جَمْعٌ۔

العَدِيلُ: نظير - مثل - رديف ج عَدْلَاءُ.
 الاغْتِدَالُ: برابرى - تناسب الاغْتِدَالُ
 السَّرْبِيعِى: موسم ربیع میں رات دن کا برابر
 ہونا۔ الاعتدال الخریفی: موسم خریف میں
 رات دن کا برابر ہونا۔
 المَعْدُولُ والمَعْدُولُ: پھرنے کی جگہ۔ کہا
 جاتا ہے "مَالَهُ مَعْدُولٌ او مَعْدُولٌ عَنْ كَذَا"
 یعنی اس کے لئے فلاں چیز سے پھرنے کی
 کوئی جگہ نہیں۔ "أَخَذَ مَعْدِلَ الْبَاطِلِ" یعنی
 اس نے باطل کا طریقہ اختیار کیا۔
 مَعْدَلَاتُ الْبَيْتِ: گھر کے گوشے۔
 عَدِيمٌ: (س) عَدَمًا وَعَدَمًا الْمَالُ: کم کرنا۔
 نیت کرنا۔ کم کرنا۔ کہا جاتا ہے "مَا يَعْدُ
 مُبْسِي هَذَا الْأَمْرُ" یہ امر مجھ سے تجاوز نہیں
 کرتا۔
 عَدَمٌ: (ک) عَدَامَةٌ: بے وقوف ہونا۔
 أَعْدَمُ إِعْدَامًا: الرَّجُلُ حَتَّى يَمُوتَ: صفت
 مُعْدِمٌ وَعَدِيمٌ..... ہ الشئى محروم کر دینا۔
 أَعْدَمْتِى الشئى: نہ پایا۔ أَعْدَمْتُ فَلَانًا: منع
 کرنا۔
 العَدَمُ والعُدْمُ والعُدْمُ: فقدان - العدم:
 نیستی۔
 العديم: فقير - محتاج۔
 العديم: بے وقوف - دیوانہ - فقیر - غیر موجود
 کہا جاتا ہے "هُوَ عديم النظر" اس کے ہم
 مثل کوئی نہیں۔ ج عُدْمَاءُ۔
 ارض عُدْمَاءُ: ویران زمین۔
 المَعْدُومُ: مفقوع - ضرووجود۔
 عَدْنٌ: (ض) عَدْنَا الارض: زمین میں
 کھاؤ الٹا۔
 الحجر: اُكْبِرْنَا۔
 عَدْنٌ: (ن ض) عَدْنَا وَعَدُونًا بِالْمَكَانِ:
 اقامت کرنا۔ التَسَدُّ: وطن بنالینا۔ اسی سے
 ہے "جَنَاتُ عَدْنٍ"۔
 عَدْنُ الارض: زمین میں کھاؤ الٹا۔
 الارض: زمین کھوونا۔ الشَّارِبُ: پینے والے
 کا آسودہ ہونا۔

عَدْنٌ: یمن میں ایک شہر کا نام۔
 العَدْنِيّ: عدن کی جانب منسوب۔ اچھے
 اخلاق والا۔
 جَنَّةُ عَدْنٍ: بہشت کا نام۔
 العَدْنان: سمندر کا کنارہ۔ دریا کا کنارہ۔
 العَدَانَةُ: جماعت۔ ج عَدَانَاتُ کہا جاتا
 ہے "آتَانَا عَدَانَاتٌ" ہمارے پاس مختلف
 جماعتیں آئیں۔
 العَدِينَةُ: ڈول کا پیوند۔
 العَدَانَةُ: گھوڑا کا لہار دخت۔ ج عَدِيَانٌ۔
 المَعْدِينُ: کان سونے چاندی وغیرہ کی۔ ہر
 چیز کا مکان جس میں اس کا اصل و مرکز ہو۔
 گرمی سردی میں رہائش کی جگہ کہا جاتا ہے "
 فَلَانٌ مَعْدِينُ الْخَيْرِ" فلاں خیر کا اصل و مرکز
 ہے۔ ج مَعْدَانٌ۔
 المَعْدَنُ: ہتھوڑا۔ وہ آلہ جس سے پتھر نکالے
 جائیں اور توڑے جائیں۔
 المَعْدِنُ: فا۔ کان کن۔ کان سے چاندی سونا
 نکالنے والا۔
 التَعْدِينُ: کان کنی اور اس کی تحقیق و معلومات
 کا علم۔
 عَدَّ يَعْدُوا عَدْوًا وَعَدُونًا وَعَدْوًا
 وَعَدَا: دوڑنا..... عَدُوا وَعَدُونًا فَلَانًا
 عَنِ الْأَمْرِ: کسی کو کسی معاملہ سے باز رکھنا۔
 عَلَيْهِ: حملہ کرنا الامر و عن الامر: چھوڑ دینا۔
 کہا جاتا ہے "عَدَا طَوْرَهُ او قَدْرَهُ" اس نے
 اپنے مرتبہ سے تجاوز کیا..... عَدُوا وَعَدُوا
 وَعَدَا: عَدُوا وَعَدُونًا وَعَدْوًا
 عَلَيْهِ: ظلم کرنا۔ کہا جاتا ہے "مَا عَدَا وَمَا
 بَدَا"۔
 عَدَا: مصدر یہ کے ساتھ یا بغیر ما کلمہ استثناء
 ہے اور یہ تمام احکام میں فلا کے مانند ہے۔ تم
 کہتے ہو "جَاءَ الْقَوْمُ عَدَا زَيْدًا وَعَدَا زَيْدًا"
 نصب اور جر کے ساتھ اور مَا عَدَا زَيْدًا:
 صرف نصب ہی کے ساتھ۔
 عَدِيٌّ يَعْدِي عَدَا لِفُلَانٍ: بغض رکھنا۔
 عَدِيٌّ عَلَيَّ فَلَانٌ: ظلم کیا جاتا۔ مال کا چوری

کیا جاتا۔
 عَدَى عَنِ الْأَمْرِ: چھوڑ دینا۔ کہا جاتا ہے
 "عَدَّ عَمَّا تَرَى" اپنی نگاہ پھیر لو..... فَلَانًا
 عَنِ الْأَمْرِ: کسی کو کسی معاملہ سے باز رکھنا.....
 الشئى: نافذ کرنا..... الشئى: لازم فعل کو
 متعدی بنانا۔
 عَادَى عِدَاءً وَمُعَادَاةً فَلَانًا: جھگڑا کرنا۔
 دشمن ہونا..... بَيْنَ الصَّيْدَيْنِ: ایک دوڑ میں
 دو شکار مارنا..... الشئى: دور کرنا۔
 أَعْدَى السَّرْجُلُ: دوڑنے کے لئے اُكْسَانًا
 فَلَانًا عَلَيَّ فَلَانٌ: مدد کرنا۔ تقویت
 پہنچانا۔ الامر: معاملہ کی جانب دوسرے کو
 بڑھانا۔
 أَعْدَاهُ سَرًّا: شریک پہنچانا..... ه مِنْ عِدْلَةٍ او
 خُلْفَى: بیماری لگا دینا یا عادی بنانا۔ کہا جاتا ہے
 "قَرِئْتُ السُّوءَ يُعْدِي قَرِيْنَةً" برا ہم نشین
 اپنے ساتھی کو بھی برا بنا دیتا ہے۔ "أَعْدَى
 عَلَيْهِ" ظلم کرنا..... فِئْسَى كَلَامِهِ: زیادتی
 کرنا۔
 تَعْدَى الشئى: تجاوز کرنا..... عَلَيْهِ: ظلم کرنا
 الشئى: متعدی ہونا..... الشئى: الى
 آخر: تجاوز کرنا۔
 تَعَادَى الْقَوْمُ: ایک دوسرے سے دشمنی کرنا۔
 دوڑ میں مقابلہ کرنا..... الرَّجُلُ: دور ہونا.....
 مَا بَيْنَهُمْ: اختلاف ہونا۔ فساد ہونا.....
 الْمَكَانُ: ناہموار ہونا۔ تَعَادَتِ النُّوَابِثُ:
 مصائب کا بے در پے ہونا۔ کہا جاتا ہے
 "تَعَادَى الْقَوْمُ" جبکہ ایک جیسی بیماری ایک
 کے بعد دوسرے کو ہو۔
 إِعْدَى الْحَقُّ وَعَنِ الْحَقِّ وَقَوْقَ الْحَقِّ:
 تجاوز کرنا..... عَلَيَّ فَلَانٌ: ظلم کرنا۔
 اسْتَعْدَى الرَّجُلُ: مدد طلب کرنا.....
 الْفَرَسُ: گھوڑے کو دوڑانا۔
 الْعَدَاءُ: مشغولیت۔ دوری..... (والعَدَاءُ):
 ایک دفعہ کی دوڑ۔ کہا جاتا ہے "عَدَا الْفَرَسُ
 عِدَاءً وَعِدَاءً وَاِحْدًا" یعنی گھوڑے نے
 ایک دوڑ لگائی۔ عَدَاءُ السَّوَادِي: وادی کا

درمیان۔

العذو والعذاء والعذی: چھوٹا پتھر جس سے کوئی چیز چھپائی جائے۔

العذی والعذی: جانبِ عذاء۔

العذی: عذاء: جمعِ عذو کی بمعنی دشمن۔

ذور ہونے والے۔ مسافرین۔ وادی کا کنارہ۔

العذی: عدد کا اسم جمع ہے۔ بلند مقامات۔

العذوی: فساد۔ امراض متعدیہ۔

العذوة: دشمنی۔ دوری۔

العذوة: دور جگہ (.....) والعذوة والعذوة:

بلند جگہ۔ وادی کا کنارہ۔ وادی کی ایک

جانبِ عذاء و عذوات۔

العذوة: ایک مرتبہ کی دوڑ۔ وادی کا کنارہ۔

العذواء: سخت اور خشک زمین۔ دوری۔

مشغولیت۔ عذواء الشوق: شدائد و

تکالیف۔ شوق۔ عذواء الشغلی: شغل کے

موانع۔ کہا جاتا ہے "طالت عذواؤہم"

یعنی ان کا تفرق اور دوری طویل ہو گئی۔

العذوان: خالص ظلم۔ کہا جاتا ہے "لا

عذوان علی" یعنی میرے اوپر کوئی مجال

نہیں۔

العذوان: تیز دوڑ۔ ذئب ذو عذوان: لاگو

بھیڑیا۔

العذاء: تیز دوڑنے والا۔

عذی: نام ایک قبیلہ کا۔ جماعت جو قتل و قتال

کے لئے تیار ہو۔

العذو: دشمن۔ نجِ اعذاء: حجِ اعادہ۔

العادی: فاد۔ دشمن۔ ظالم۔ حد سے بڑھنے

والا۔ اچکنے والا۔ چور۔ شیر۔ عادی

العوادی: بہت ضروری امور جو دوسرے

امور سے بازرگ نہیں جِ عذاة۔ عادی اللوح:

تختی کے دونوں طرف۔

العادیة: مؤنث عادی۔ جماعت جو قتل و قتال

کے لئے تیار ہو۔ لوٹنے والے۔ گھڑ سوار۔

دوری۔ مشغولیت۔ تیزی غضب۔ عادیة

النسج: زہر کا ضرر۔ کہا جاتا ہے "رقتعت

عنک عادیة فلان" میں نے تم سے فلاں کا

نقصان دور کر دیا۔ عواد: عوادی الذہر:

گردشیں۔ موانع۔ کہا جاتا ہے "صرفتہ عن

کذا عواد" اس کو فلاں کام سے موانع نے

روک دیا۔

الصعدی: گزرگاہ۔ کہا جاتا ہے "صالی عن

فلان معدی" میرے لئے فلاں سے

گزرنے کی جگہ نہیں ہے۔

عذب: (ض) عذبا: سخت پیاس کی وجہ سے

کہانا چھوڑ دینا۔ صفت عذوب

وعذوب..... عنہ: باز رہنا..... منع کرنا۔

عذب السوط: کوڑے میں پھندا لگانا۔

عذب: (س) عذبا الماء: کائی والا ہونا۔

صفت عذب۔

عذب: (ک) عذوبة واعذوب

الشراب: میٹھا خوشگوار ہونا۔

اعذب: میٹھے پانی پر پہنچنا۔ کائی۔ کوڑا کرکٹ

دور کرنا..... القوم: میٹھے پانی والا ہونا۔ اللہ

الماء: میٹھا پانی کر دینا..... عنہ: باز رہنا

عن الامر: منع کرنا۔ کہا جاتا ہے "اعذب

نفسک عن کذا" اپنے نفس کو اس سے

روکو۔

عذبة: عذاب دینا۔ عذبه عن الشی: منع

کرنا۔ عذب السوط: کوڑے میں پھندا

لگانا۔ الشی: روکنا۔

اعذب: عمامے کے دو شلے لگانا۔

استعذب: الشی: میٹھا خوشگوار پانا۔ میٹھا

خوشگوار پانی طلب کرنا۔ کہا جاتا ہے "خروج

یستعذب الماء" میٹھا پانی لانے کے لئے گیا

..... عن کذا: باز رہنا۔

العذب: مص۔ خوشگوار کھانا پانی۔ ماء

عذب: میٹھا پانی۔ العذب: ایک قسم کا

درخت۔

العذب: حص۔ کوڑا کرکٹ۔ نکا۔ ترازوی

زیان۔ درخت کی ٹہنیاں۔ ہر چیز کے

اطراف۔ عمامہ کا شملہ۔ واحد عذبة۔

العذبة: نکا (.....) والعذبة والعذبة: کائی

نج عذبات۔

العاذب: فاد۔ وہ شخص کہ اس کے اور آسمان

کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو۔

من الذواب: وہ جانور جو کھرا ہو اور کھاتا پیتا

نہ ہو۔ نج عذوب۔

العذوب: بمعنی عاذب..... من الذواب:

شدت پیاس کی وجہ سے چارے کو چھوڑنے

والا۔

العذاب: ہر وہ جو انسان کے لئے باعث

مشقت ہو۔ تکلیف۔ سزا۔ نج اعذبة۔

عذج: (ض) عذجا: الماء: پانی پینا.....

فلاناً: گالی دینا۔

المعذج: غیرت مند۔ بدخلق۔ بہت ملامت

کرنے والا۔

عذرة: (ض) عذرا وعذرا وعذری

ومعذرة ومعذرة علی او فی ما صنع:

الزام سے بری کرنا۔ عذر قبول کرنا۔

عذر: (ض) عذرا وعذرا: گناہ زیادہ ہونا

(..... عذرا) الغلام: لڑکے کا تختہ کرنا۔

عذر: (ض ن) عذرا وعذرا: الفرس

بالعذار: بوزی لگانا یا گ ڈور سے باندھنا

..... الضبی العاذور: حلق کا درد لاحق ہونا

اور تکلیف پہنچانا۔

عذر الضبی: حلق کا درد لاحق ہونا۔

عذر: عذرتا بت نہ ہونا..... عذر کرنے

میں مبالغہ کرنا۔ عذر الغلام: لڑکے کے

رخسارہ پر سبزہ اگنا۔ مسین بھیگانا..... النذار:

نشانات مٹانا..... فی الامر: کوشش نہ کرنے

کو تائی کرنا۔

اعذرة فی او علی ما صنع: الزام سے

بری کرنا۔ الرجل: عذر ظاہر کرنا۔ من

نفسه: بکثرت گناہ کرنا۔ انصاف کرنا.....

فی الامر: کوتاہی کرنا اور کوشش نہ کرنے کے

باوجود کوشش کرنے والا بھگانا..... الفرس:

بوزی باندھنا یا گ ڈور سے باندھنا..... الغلام:

لڑکے کا تختہ کرنا..... فی ظہره: مار کر بھی

ڈالنا۔ کہا جاتا ہے "ضربه حتی اعذر

فَنَنْهَ، مارا یہاں تک کہ پیٹھ پر زخم کے نشانات ڈال دیئے..... بَفْلَانٍ: زخم کا نشان چھوڑنا۔ کہا جاتا ہے "ضَرَبَ فُلَانٌ فَاَعْلِيذَ" یعنی مارتے مارتے ہلاکت کے قریب پہنچا دیا گیا۔ اَعْلَزَتِ السَّارُ: بکثرت پلیدی والا ہوتا۔

عَاذَرُ مَعَاذَرَةٌ: عذر نہ ثابت ہونا۔ تَعَذَّرَ: عَلَيْهِ الْأَمْرُ: دشوار ہونا۔ باز رہنا۔ عَنِ الْأَمْرِ: پیچھے ہٹنا..... الرَّسْمُ: ثنا..... الرَّجُلُ: اپنے لئے حجت کرنا۔ بھاگنا..... الشُّيْ: پلیدی سے تھرتھانا..... فُلَانٌ مِنَ الذَّنْبِ: گناہ سے بری ہونا۔

اِعْتَذَرَ عَنْ وَمِنْ فَعَلِهِ: عذر بیان کرنا..... عَنْ فُلَانٍ: کسی کے عذر قبول کرنے کو کہنا۔ الرَّجُلُ: صاحب عذر ہونا..... إِلَيْهِ: عذر پیش کرنا..... الرَّسْمُ: نشان ثنا۔ اِسْتَعَذَرَ إِلَيْهِ: عذر پیش کرنا۔

الْعُذْرُ: حجت جس کی بنا پر عذر کیا جائے۔ رَجَّعَ: اَعْدَارُ: غلبہ۔ کامیابی اور اسی سے ہے جو جنگ کے موقع پر کہا جاتا ہے "لَمِنَ الْعُذْرِ" یعنی کسی کے لئے غلبہ ہے اور کہا جاتا ہے "هُوَ أَبُو عُذْرٍ هَذَا الْكَلَامِ" وہ اس کلام کا پہلے بولنے والا ہے۔ "الْهَوَى الْعُذْرِي" پاکیزہ محبت۔

الْمِعْدَارُ: پوزی۔ باگ ڈور۔ رَجَّعَ: رَحَارَه: رخسارے پر کان کے مقابلے بال۔ حیاء کہا جاتا ہے "خَلَعَ عِدَارَةً" و "هُوَ خَلِيعُ الْعِدَارِ" یعنی وہ اپنی خواہشات کا پابند ہے اور گراہیوں میں منہمک ہے اور اپنے قول و فعل میں کوئی پرواہ نہیں کرتا گویا کہ بلارس کے جانور ہے۔ "لَسُوِي عِدَارَةٌ" عَنَهُ: یعنی تا فرمانی کی العِدَارُ مِنَ النَّضْلِ: تیر کے پھل کے دونوں طرف کی دھار۔ العِدَارُ: ختنہ کا یا تیر مکان کا کھانا۔

العِدْرَةُ: عذر۔ رَجَّعَ: العِدْرَةُ: بکارت۔ کوئی علامت جو تیز رفتار گھوڑے کو نظر بند سے بچانے کے لئے اس کی

پیشانی پر باندھا جائے۔ بالوں کا گچھا۔ گھوڑے کی گردن کے بال۔ العِدْرَةُ: پیشانی۔ ختنہ کا چمڑا۔ ایک ستارہ کہ جب وہ نکلتا ہے تو گرمی بڑھ جاتی ہے۔ حلق کا درد رَجَّعَ: عُدْرُ:

العِدْرَةُ: پانچٹانہ۔ روی حصہ جو گے ہوں سے نکلے۔ مکان کے سامنے کا گھن رَجَّعَ: العِدْرَةُ: العَاذِرُ: قا۔ نشان زخم (.....) والعَاذِرَةُ: پانچٹانہ۔ العَاذِرُ: وہ رگ جس سے استخاضہ کا خون آتا ہے۔

العِذِيرُ: بمعنی عَاذِرُ: مددگار رَجَّعَ: عُدْرُ: مَوْنُثُ عِذِيرَةٌ: العِذِيرُ والعِذِيرَةُ: کسی نئی خوشی کا کھانا۔ العِذِيرَةُ: نشان زخم۔

العَاذِرُ: گلے کا درد۔ علامت رَجَّعَ: عَوَاذِيرُ: اِلْعَاذِرُ: کسی نئی خوشی کا کھانا۔

العِذْرَاءُ: باکرہ۔ درنا سفید رَجَّعَ: عِدَارِي وَعِدَارِي وَعِدْرَاوَاتُ: لقب سیدہ مریم رضی اللہ عنہا کا۔

العِدْرِي والمِعْدَرَةُ والمِعْدَرَةُ والمِعْدَرَةُ: عذر۔ بہانہ۔ رَجَّعَ: مَعَاذِرُ:

المِعْدَارُ: عذر۔ بہانہ۔ رَجَّعَ: مَعَاذِيرُ: عَذْفُ: (ض) عَذْفًا مِنَ الطَّعَامِ: چکھنا۔

تَعَذَّفُ: الطَّعَامِ: کھانا۔ کہا جاتا ہے "مَا ذَقْتُ عَذْفًا وَلَا عَذْوْفًا وَلَا عَذْفًا" یعنی میں نے کچھ نہیں چکھا۔

سَمَّ عَذْفًا: زہر قاتل۔ العِدْفِيرُ: شیر۔ مضبوط اُونٹ۔ رَجَّعَ: عَذْفِيرَةٌ: عَذْوْفِيرُ: مضبوط اُونٹ۔

عَذْقُ: (ض) عَذْقًا وَعَذْقُ السَّخْلَةِ: درخت خرما کی شاخ کا ٹٹا۔ عَذْقُ فُلَانًا: بِشَرِّ: کسی کو تہمت لگانا۔ عَذْقَهُ إِلَى كَذَا: مَنُوبٌ: عَذْقُ وَأَعَذَقُ الشَّاةَ: بکری کے رنگ کے خلاف کسی دوسرے رنگ کے اون سے نشان لگانا۔

اِعْتَدَقُ: دو شے لگانا۔ اِعْتَدَقَهُ بِكَذَا: کسی چیز کے ساتھ خاص کرنا۔ العَاذِقُ: قا۔ وہ شخص جو درخت خرما کی دیکھ

بھال اور خدمت کرے۔ رَجَّعَ: اِذْقُونُ وَعَذَقُ:

العَذْقُ: پھل دار کھجور کا درخت۔ رَجَّعَ: اِعَذَقُ وَعَذَقُ:

العِذْقُ: انگور کا گچھا..... مِنَ النَّخْلِ: کھجور کا خوش رَجَّعَ: عَذْقُ وَأَعَذَقُ: العِذْقُ: شَارِحُ دار شبنم۔ عزت۔ کہا جاتا ہے "لَطِي بَنِي فُلَانٍ عِذْقِي كَمَلٌ" بنی فلاں میں انتہائی عزت ہے۔

العِذْقُ: ہوشیار۔ چرب زبان۔ طِينِبُ عَذْقُ: تیز خوشبو۔

العِذْقَةُ والعِذْقَةُ: بکری کے رنگ کے خلاف اون کا نشان۔

عِذْلَةٌ: (نض) عِذْلًا وَعِذْلَةٌ: ملامت کرنا۔ صفت عِذَالٌ رَجَّعَ: عِذْلٌ وَعِذَالٌ وَعِذْلَةٌ وَعِذَالُونَ مَوْنُثُ عِذَالَةٌ رَجَّعَ: عَوَاذِلُ وَعِذَالَاتُ:

تَعَادَلُ: القَوْمُ: ایک دوسرے کو ملامت کرنا۔

تَعَادَلُ: اِعْتَدَلُ: اپنے آپ کو ملامت کرنا۔ ملامت سے متاثر ہونا۔ اِعْتَدَلُ: اليَوْمُ: دن کا سخت گرم ہونا۔ اِعْتَدَلُ: الرَّجُلُ عَلَى الشُّيْ: پختہ لہا دہ کرنا۔

العِذْلُ والعِذْلُ: ملامت کرنا۔ اَيَّامٌ عِذْلٌ وَمُعْتَدِلَاتٌ: سخت گرم دن۔

العِذْلَةُ والعِذْلُ والعِذَالُ والعِذَالَةُ: بہت ملامت کرنے والا۔

العِذَالَةُ: مَوْنُثُ عِدَالٌ: سرین۔

العَاذِلُ: قا۔ رگ خون استخاضہ۔

السُّعْدَلُ: مِغْغُ: فیاضی کی وجہ سے ملامت کردہ شدہ۔

عِذْلَانُجُ: السِّقَاءُ: مشکیزہ بھرتا..... الوَلْدُ وَعِذْرَةٌ: لڑکے کو اچھی غذا دینا۔

عِشْشُ عِذْلَانُجُ: خوشگوار زندگی۔ العِذْلُوحُ: اچھی غذا سے تربیت یافتہ بچہ۔

السُّعْدَلُجُ: ہڈ گوشت۔ خوبصورت جسم والا۔ مَوْنُثُ مِعْدَلُجَةٍ:

عِذْمُ: (ض) عِذْمًا: الفَرَسُ: گھوڑے کا

کاٹ کھانا..... الرَّجُلُ: اپنے آپ سے دفع کرتا..... ملامت کرتا۔
 عَظْمٌ: (س) عَظْمًا: گالی دینا۔
 أَعْدَمْتُهُ: عَنِ نَفْسِهِ: روکنا۔ منع کرنا۔
 السَّؤْمُ: بہت کاٹ کھانے والا۔ بہت ملامت کرنے والا۔ عَظْمٌ۔
 العُدْمُ: بہت کاٹ کھانے والا۔ بہت ملامت کرنے والا۔
 العَذِيْمَةُ: ملامت۔ بغیر غلطی کی کھجور کا درخت۔
 عَدَاً يَعْدُو وَعَدُوًّا وَعَدِيًّا يَعْذِي عَدِيًّا وَعَدُوًّا يَعْذُو عَدَاوَةَ الْمَكَانِ: اچھی ہو اور الا ہونا۔ پانی اور امراض و بائیے سے دور ہونا۔
 اسْتَعْدَى الْمَكَانَ: اچھی ہو اور الا سمجھنا۔
 ارض عَادِيَّةٌ وَعَدِيَّةٌ وَعَدِيَّةٌ وَعَدَاةٌ: عمدہ آب و ہوا والی زمین۔
 العَدِيُّ: کھیت جس کی سیرابی صرف بارش سے ہو۔ رج اعزاء۔
 عَرٌّ: (ن ض) عَرًّا وَعَرًّا الْجَمَلُ: خارش ہونا۔ مفت عَرٌّ وَعَرٌّ وَعَارٌّ وَمَعْرُورٌ۔
 عَرَّةٌ: (ن) عَرًّا: تھکن ہونا۔ سائل بن کر آنا۔ عَرَّةٌ بِشَرٍّ: برائی سے ملوث کرنا.....
 وَعَرٌّ: الْأَرْضُ: زمین میں کھاؤ والا۔
 عَرٌّ: (ض) عَرَّازًا وَعَرَّازًا وَعَرَّازًا الْعَطِيمُ: شتر مرغ کا بیٹا۔
 أَعْرَبُ: الدَّارُ: مکان کا گندگی والا ہونا۔
 تَعَارٌ: نیند سے بولتے ہوئے بیدار ہونا۔
 اِعْتَرَبَهُ وَعَتَرَبَهُ اِعْتَرَاؤًا: بغیر سوال کے بخشش کے لئے آنا۔
 اسْتَعَرَبَهُ الْجَرَبُ: خارش پھیلنا۔
 العَارِزُ وَالْعَارِزَةُ: منحوس مرد۔ قوم پر بے عزتی کرنے والا۔ بے کوہان کا اونٹ۔
 العَرُورُ وَالْعَرُورُ: خارش۔
 العَرٌّ: خارش۔ عیب۔ برائی۔ جلدی دودھ پھڑپھڑایا ہوا پیچ۔
 العَرَّةُ: اسمِ مَرَّةٍ۔ مَوْنَةُ العَرِّ: جنگ کی تختی۔
 بُرِي عَادَتٍ۔ عَيْبٌ۔

العَرٌّ: خارش۔ پرندے کی بیٹ۔ لڑکا۔
 السُّوْرَةُ: خارش۔ لڑکی۔ پرندے کی بیٹ۔
 مَيْقِيٌّ۔ گوبر۔ کوہان کی چربی۔ مکروہ بات پہنچانا۔ گناہ۔ جنون جو انسان کو لاحق ہو۔ کہا جاتا ہے "بہ عَرَّةٌ" یعنی اس کے ساتھ جنون ہے۔
 الْأَعْرُ: خارش مرد یا اونٹ۔ مَوْنَةُ عَرَّاءٍ: رج عَرٌّ۔ العَرَّاءُ: لڑکی۔
 العَرَّارُ: ایک پھول خوشبودار جس کا نام گاؤں چشم ہے جنگلی نرمس۔ واحد عَرَّارَةٌ۔
 العَرَّازَةُ: قصاص۔ خون کا بدلہ۔
 العَرَّازُ: گناہ۔ قصور۔
 العَرَّازَةُ: ٹڈی۔ تختی۔ بلندی۔ بدخلقی۔
 العَرِّيُّ: انجلی۔
 المَعْرَةُ: گناہ۔ تکلیف۔ بدی۔ تاوان۔
 قَصُورٌ۔ عَيْبٌ۔ امر قَبِيحٌ۔ تختی۔ گالی۔ غصہ سے چہرے کے رنگ کی تبدیلی۔ ستارہ کھکشاں کے علاوہ۔ نام ایک شہر کا۔ مَعْرَةُ الجَيْشِ: لشکر جو لاعلمی سے قوم کی کھیتی کھالے۔
 المَعْتَرُ: فقیر۔ بغیر سوال کئے ہوئے بخشش کے درپے ہونے والا۔
 عَرَبٌ: (ك) عَرَبِيَّةٌ وَعَرُوبِيَّةٌ وَعَرَابِيَّةٌ وَعَرَبِيَّةٌ وَعَرُوبًا: فصیح عربی زبان بولنا۔ فصیح عربی ہونا۔
 عَرَبٌ: (س) عَرَبِيًّا: بگڑے ہوئے معدہ والا ہونا..... السَّمْعَةُ: معدہ کا فاسد ہونا.....
 العُرُوعُ: سو جانا اور پیپ والا ہونا..... البَيْتُ: کتوں میں پانی بہت ہونا..... الرَّجُلُ: کثت کے بعد فصیح ہونا۔
 عَرَبٌ: (ض) عَرَبِيًّا: الطَّعَامُ: کھانا۔
 عَرَبٌ: المنطِقُ: اعرابی غلطی سے پاک کرنا..... الحِصَابُ: ونحوہ: عربی میں ترجمہ کرنا..... عَلَيْهِ فَعَلُهُ: قیاحت تانا..... قَوْلُهُ: رد کر دینا عِنْدَ لِسَانِهِ: فصیح ہونا۔ مراد کو ظاہر کرنا..... عَنِ صَاحِبِهِ: اپنے صاحب کی طرف سے بولنا اور جت بیان کرنا..... الرَّجُلُ: عربی گھوڑا لینا۔ المَشْتَرِي: بیجانہ دینا۔

الرَّجُلُ: فصیح بات بولنا..... بِحُجَّتِهِ: دلیل کو اچھی طرح بیان کرنا..... الْإِسْمُ الْأَعْيَضِيُّ: عربی کر دینا۔
 أَعْرَبُ: الشَّيْءُ: ظاہر کرنا..... عَنِ حَاجَتِهِ: صاف بیان کرنا..... مَخْلَافَةٌ: نصاحت سے بولنا اور غلطی نہ کرنا..... بِالْكَلامِ: بیان کرنا۔
 بِحُجَّتِهِ: عمدہ دلیل لانا..... الْإِسْمُ الْأَعْيَضِيُّ: عربی بنا دینا..... الْحَلِيمَةُ: اعراب لگانا..... الْقَرَسُ: دوڑانا..... الْقَرَسُ العَرَبِيُّ: پہنچانے سے عربی گھوڑے کو غیر عربی سے ممتاز کرنا۔ أَعْرَبَ الرَّجُلُ: اونٹ اور عربی گھوڑوں کا مالک ہونا.....
 المَشْتَرِي: بیجانہ دینا..... الرَّجُلُ: کلام میں غلطی نہ کرنا۔ فحش بات بولنا۔
 تَعَرَّبَ: اخلاق عرب کو اختیار کرنا۔ ان کی مشابہت کرنا۔ دیہات میں اقامت کرنا اور اعرابی بننا۔
 اسْتَعْرَبَ: عربوں میں داخل ہو جانا۔ فصیح بات بولنا۔
 العَرَبُ وَالْعَرَبُ: ہاشدگان ملک عرب۔ رج أَعْرَبٌ وَعَرُوبٌ۔
 العَرَبُ وَالْعَرَبِيَّةُ وَالْعَرَابِيَّةُ وَالْعَرَبِيَّةُ وَالْعَرَبِيَّةُ: خالص عربی لوگ اور لفظ عرب اس موقع پر طائفہ کی تاویل میں مَوْنَةُ ہے۔
 العَرَبُ وَالْمَعْرَبَةُ وَالْمَشْتَرِيَّةُ: غیر ملکی لوگ جو عرب میں آ کر آباد ہو گئے ہوں۔
 العَرَابِيَّةُ وَالْعَرَابِيَّةُ: فحش و بد گوئی۔
 العَرَبُ وَالْعَرَبُ: مِنَ الْمَاءِ: کثیر صاف پانی۔ رَجُلٌ عَرَبٌ: تیز زبان مرد۔ بَشَرٌ عَرَبِيَّةٌ: بہت پانی والا کتوں۔ مَعْدَةُ عَرَبِيَّةٌ: فاسد معدہ۔
 رَجُلٌ عَرَبَانٌ: فصیح مرد۔
 رَجُلٌ عَرَبَانِيٌّ اللِّسَانُ: فصیح مرد۔
 العَرَبِيُّ: خالص عرب کا ہاشدہ۔ اگرچہ قیام کسی دوسرے ملک میں ہو۔
 العَرَبِيَّةُ: مَوْنَةُ العَرَبِيَّةِ: اللُّغَةُ العَرَبِيَّةُ: عربی زبان۔

الاعترابی: عرب کا دیہاتی۔

الاعتراب: عرب دیہات کے باشندے۔
واحد اعترابی۔

العربیۃ: تیز بہنے والی نہر۔ نفس۔ ج عرب
وعربیات. العربیات: وہ کشتیاں جو عباسیوں
کے دور میں دجلہ میں بندھی ہوئی رہتی تھیں
جن سے پل کا کام لیا جاتا تھا اور اب اس لفظ
کا اطلاق بھی پر ہوتا ہے۔

العرواب. عند النصارى: جب کسی کو پتھر
دیا جاتا ہے تو عیسائی رسم کے مطابق ایک
مقدس شخص اس کا باپ بنا ہے وہ "عرواب"
اور جو ماں بنتی ہے وہ "عروابہ" کہلاتی ہے۔
جنہیں انگریزی میں Good Father
and Good Mother کہتے ہیں۔

الاعرابیۃ: عربی دیہاتیت۔ کہا جاتا ہے
"هُوَ اَعْرَبُهُمْ اَحْسَانًا" حسب کے لحاظ سے
خالص و اعربہم الیسۃ" اور زبان کے لحاظ
سے فصیح او ابل عربا و اعرب:
خاص عربی گھوڑے یا اونٹ۔

العربان: عرب۔
العروب والعروبۃ من النساء: بہت ہنسنے
والی۔ زوج کی نافرمان۔ عروبۃ اور نوم
العروبۃ: جمود کا دن۔ کہا جاتا ہے "منا بالذار
مُعْرَبٌ او عرب" یعنی گھر میں کوئی نہیں۔
الاسم المَعْرَبُ: عربی بنایا ہوا اسم۔ جیسے
ریشم سے ابریسم۔

عربۃ عربۃ: بدخلق ہونا۔ صفت عربید
ومعربد۔

العربۃ والعربۃ: ایک سخت چیز۔ کہا جاتا ہے
"عَصَبٌ عَصَبًا عَرَبِدًا" یعنی سخت غضبناک
ہوا زسانپ۔

عربۃ: بیعانہ دینا۔
العربون والعربون والعربان: بیعانہ۔ سائی
ج عربین: عوام عربوں..... کہتے ہیں۔

عرب: (ض ن ف) الرُمح: تیزے کا سخت
ہونا..... البرق ونحوہ: بجلی وغیرہ کا چمکنا
..... برق او رُمح عرابت: بہت حرکت

کرنے والا نیزہ یا بگیل۔

العربۃ: ناک یا ناک کا نرم حصہ۔ اوپر کے
ہونٹ کے بیچ کا گڑھا۔

العربۃ: ناک کا اگلا حصہ۔ کہا جاتا ہے
"فعلہ علی عربۃ" یعنی اس کے مزاج
کے خلاف کیا۔

عرب: (ض ن) عرب و ج و معرب جافی
السلم: سیڑھی پر چڑھنا..... علی الشی
وفیہ: چڑھنا۔ عرب: عرب: چڑھایا جاتا۔

عرب و عرب: (ف س) عرب: لنگڑا ہونا۔
صفت اعرب: ج عرب و عربان: موزنٹ
عرباء۔

عرب (س) و عرب (ک) عرب
الشمس: آفتاب کا عرب ہونے کی طرف
مائل ہونا۔

عرب: ٹھہرنا۔ ایک جانب سے دوسری جانب
جھلکنا..... عن الشی: چھوڑنا اور تجاوز کرنا
..... الثوب: پیچیدہ دھار دار بنانا..... البنائۃ
او التہو: جھکاؤ کے ساتھ بنانا..... الرجل:
آفتاب کے غائب ہونے کے وقت داخل

ہونا۔ کہا جاتا ہے "فلان لا یسرع علی
قولہ" یعنی فلاں آدمی کی بات پر اعتماد نہیں کیا
جاتا ہے (..... و تعرب: جھلکنا..... علی
السکان: سواری کے جانور کو باندھنا اور
اقامت کرنا۔

اعرب: آفتاب کے غائب ہونے کے وقت
داخل ہونا۔ اعربہ اللہ: لنگڑا کر دینا۔
تعرب: جھلکنا۔

السرع: الشی: مزنا۔ ٹیڑھا ہونا.....
الطریق: جھلکنا..... عن الشی: تجاوز کرنا
چھوڑ دینا..... القوم عن طریق: بھٹک
جانا۔

العرب و العربان: لنگڑا ہونے کی
چال۔

العرباء: موزنٹ الاعرب: لنگڑی عورت۔
بجو۔
العرباء العرباء: جس پر توقف کیا جائے۔

أمر عرب: غیر مستحکم کام۔

العرباء: دوپہر۔ دن میں ایک مرتبہ کھانا۔
السرع و المعرب و المعراج: سیڑھی۔
پڑھنے کی جگہ۔ ج معرب و معارج.

المنعرج من الوادی: وادی کا موڑ۔
عرب الثوب: کپڑے پر شاخوں کی شکل
بنانا۔

العربون: کھجور کے چھپے کی بڑ جو میڑھی ہوتی
ہے اور چھپے کو کاٹنے پر درخت پر خشک ہو کر
بائی رہتی ہے۔ ج عربین.

العرب و العرباء: بمعنی عربون۔
عرب (ن) عرب الحجر: پتھر کو دور
پھینکنا۔

..... عرب و العرباء (النباث او الناب):
پودے یا دانت کا پورا نکل آنا اور سخت ہونا
..... الشجر: درخت کا موٹا اور بڑا ہونا۔

عرب (س) عرب و العرباء: عرب و العرباء
کے بعد جسم کا قوی ہونا۔ عرب السہم فی
الرمیۃ: تیر کا پار ہونا۔ عرب السجم:
ستارے کا بلند ہونا۔ آسمان کے وسط میں

تپنے کے بعد ڈوبنے کی طرف مائل ہونا۔
عرب الرجل: راستہ کو چھوڑ کر مڑ جانا۔
العرب و العرباء: بہت سخت۔

العرباء: مادہ مٹی۔ حالت اور اسی سے ہے
"ہو فی عرباء خیر" وہ اچھی حالت میں
ہے۔

العرباء: پتھر پھینکنے کا آلہ ج عرباء
العرباء: طور طریقہ۔ عادت۔ کہا جاتا ہے
"ہذا عرباء" یہ اس کی عادت ہے۔

عرباء: پچھڑانا۔
العرباء: بڑا سیلاب۔ بڑا شیر۔ عرب
عرباء: ثابت رہنے والی عزت۔

عرب (ض ن) عرباء: سختی سے کھینچنا۔
الرجل: کسی کو ملامت کرنا (..... و عرب (س)
عرباء: سخت ہونا۔ سکرنا۔

عرباء: سکرنا..... الشی: پوشیدہ کرنا۔
عرباء: دشمنی کرنا۔ مخالفت کرنا۔

عَارِزٌ وَتَعَارِزُ الشَّيْءِ: سکرنا۔

أَعْرَزَ: الشَّيْءُ: فاسد کرنا۔ بگاڑ دینا۔

تَعْرُزٌ: عَلَيْهِ: دشوار ہونا۔

إِسْتَعْرَزَ: الشَّيْءُ: سکرنا..... الرَّجُلُ: سخت

ہونا۔

العوزال: شیر کا مسکن۔ فالیز والے کا پیمان۔

جنگ کے موقع پر بادشاہ کے لئے چھوٹا سا

مکان۔ سانپ کی بئی۔ ٹٹی۔ دکان۔ لوگوں

کی جماعت۔ مشکیزے کا منہ۔ ق۔ قوم

عزازیل: چوروں کا گروہ۔

العوزم: پرانا سانپ۔

العوزم والعوزام والعوزام: شیر۔۔

عرس: (ن) عرسا: خوشی میں رہنا

..... غنة: پھر جانا)..... عرسا وعرسا):

جماع کرنا۔

عرس: (ن ض) عرسا: البعير: اونٹ کی

گردن کو اگلے پاؤں سے بیٹھے کی حالت میں

باندھنا۔

عرس: (س) عرسا: الرجل: اکڑنا۔

..... بہ: لازم ہونا۔ محبت کرنا..... مينة: بے

خود ہونا۔ صفت عرس:..... الشئ: سخت

ہونا۔ المشربينهم: ہمیشہ رہنا..... غنة: بزدل

ہونا۔ پیچھے ہٹنا..... على ما عندة: بازار ہونا

اور بچل کرنا۔

أعرس: دلہن لانا..... الشئ: لازم ہونا اور

محبت کرنا..... الرجل: بچل کے ایک پاٹ کو

دوسرے پر پینے کے لئے رکھنا..... بأهله:

جماع کرنا)..... وعرس) القوم: سفر میں

آخرا ت میں آرام کے لئے اترنا۔

تعرس لامرأته: فریفتہ ہونا۔

اعترس القوم غنة: متفرق ہونا۔ جدا ہونا۔

العرس: بمص۔ رمی۔ خمیر کے بچ کا کھمبا

(..... والعرس): چھوٹا بچہ اونٹ کا۔ رج

أعراس.

العرس: دلہن۔ عرس المرأة: دولہا۔ رج

أعراس. ابن عرس: نیولا۔ رج تسنات

عرس: (مذکر مؤنث دونوں کے لئے)

العرس والعرس: زفاف۔ ولیمہ کا کھانا۔ رج

أعراس وعرسات.

العراس: رمی جس سے اونٹ کو باندھا

جائے۔

العروس: دلہا دلہن۔ جمع کے لئے بولا جاتا

ہے "هَمْ عَرَسَ وَهَنْ عَرِيسٌ" اور التباس

کے دفع کرنے کے لئے عورت پر عروسہ کا

اطلاق ہوتا ہے۔ رج عرائس.

العريس عند المولدين: دلہن۔

العريس والعريسة: شیر کی جھاڑی۔

العراس والمعرس والمعرس: اونٹ کے

چھوٹے بچوں کو بیچنے والا۔

المعرس والمعرس: آخرا ت میں آرام

لینے کے لئے اترنے کی جگہ۔

عرش: (ن ض) عرشا: لکڑی کا مکان بنانا

..... البيت: گھر بنانا..... العرش: چھت

بنانا۔ تخت بنانا..... البئر: کنوئیں کے نچلے

حصہ کو قد کے برابر پتھر سے بنا کر بقیہ کو لکڑی

سے بنانا)..... عرشا وعروشا) الكرم:

انگور کی تیل کوئی پر چڑھنا۔

الكرم: انگور کی تیل کا ٹی پر چڑھانا۔

عرش (ض) عروشا بالمكان: اقامت

کرنا۔

عرش: (س) عرشا وعرشا: متحیر ہونا۔

بغریمہ: سخت پکڑنا۔ غنة: پھرنا۔ چھوڑ دینا۔

عرش الكرم: انگور کی تیل کا ٹی پر چڑھانا۔

البيت: چھت بلند کرنا..... الطائر: بلند ہو کر

بازوؤں سے سایہ کرنا)..... واعرش): ٹٹی

بنانا۔ سایہ لینے کے لئے چھو لاری بنانا۔

تعرش وتعروش بالأمر: چٹا رہنا

..... بالمكان: ثابت رہنا۔ تعروش الذبابة

: سوار ہونا۔

إعترس: ٹٹی بنانا۔ سایہ لینے کے لئے

چھو لاری بنانا۔ إعترست الدو إلى علی

الخصب: انگور کی تیل کا چڑھنا اور لکھنا.....

واعروش) الذبابة: سوار ہونا۔

العرش: تخت شاہی۔ العرش: کسی چیز کا

رکن۔ کسی چیز کا توام۔ کہا جاتا ہے "نسل

عرشہ" یعنی اس کی عزت جاتی رہی اور اس

کا معاملہ کمزور ہو گیا۔ العرش من البيت:

چھت۔ من القوم: رئیس۔ سردار۔ العرش:

لکڑی جس سے کنوئیں کے اوپر کا حصہ بنایا

جائے۔ شامیانہ۔ خمیر۔ مکان جس میں سایہ

لیا جائے۔ محل۔ قدم کی پشت پر بلند حصہ۔

کنوئیں کا من عرش الطائر: کھونسلہ۔

عرش الكرم: انگور کی ٹٹی رج اعراض

وعروش وعروش وعروسة.

العريس: جھوپڑی۔ چھو لاری۔ جانوروں

کو سردی سے بچانے کا ہارہ۔ انگور کی ٹٹی۔ رج

عرش (..... والعريسة): پاگلی۔

عرص: (ض) عرسا وعرص: (س)

عرصا البرق: بجلی کا پراگندہ چمکانا۔ صفت

عرص عرص: الرجل: نشاط میں ہونا۔

عرص البعير: اونٹ سدھا لینا..... اللحم:

گوشت کو میدان میں خشک ہونے کے لئے

ڈالنا۔

أعرص الشئ: مضطرب ہونا۔

تعرض بالمكان: اقامت کرنا۔

إعترض. الغلام: کھیل کود کرنا۔ خوش ہونا

..... الجلد: کھال کا پھڑکنا..... البرق: بجلی

کا پراگندہ چمکانا..... الرجل: اچھلنا۔ کودنا۔

العروسة: گھر کا گھن۔ ہر وہ جگہ جس میں کوئی

عمارت نہ ہو۔ رج عراس واعراض

وعروصات.

العراس: بہت پراگندہ چمکنے والی بجلی۔ گرج

اور بجلی والا بادل۔ نرم نیزہ۔

المعرص: نیا جامد۔

عرصة. عروصة: کھینچ کر لیا پھاڑ دینا۔

المعروض والمعروض: پالان کی میخ۔ رج

عراصيف. العوصاف: پٹھے کا کوڑا۔ سوڈ

کی نرم ہڈی۔

العروسة: بہت کھانے والا۔ خرم و شادمان۔

العروسة: لاغر۔ مضبوط قوی۔ شیر

(..... العروصام والعواصم) شیر۔

الغرضوم: بخیل۔

عَرْض (ض) عَرْضًا الشئُ بفلانٍ: پیش کرنا..... الشئُ علیہ: دکھانا..... المتعاع لبسیع: سامان کو فروخت کے لئے خریداروں کے سامنے کرنا..... الجند: فوج کا جائزہ لینا..... لہ من حقه قوتنا: حق کے بدلے میں دینا۔ عَرْض لہ عارض من الخمی: بخار لاحق ہونا..... القوم علی السیف: قوم کو تلوار سے مارنا..... الحصیر: چٹائی بچھانا۔ کہا جاتا ہے "عَرْض عَرْض او عَرْض فلان" وہ فلاں کی چال چلا۔ لا تعرض عَرْض فلان: فلاں کو برائی سے یاد نہ کرو۔ عَرْض الرَجُل: بغیر کسی بیماری یا سبب کے مرنا..... الفرس گھوڑے کا دوڑنے لگانا۔ عَرْض لئ عارض: مجھے ایک مانع نے روک دیا۔

عَرْض (ض) وعَرْض (س) عَرْضًا: ظاہر ہونا اور ہمیشہ نہ رہنا۔

عَرْض (ض ن) عَرْضًا العود علی الاتاء: برتن پر کلڑی کو چوڑائی میں رکھنا۔

عَرْض: بجنوں ہونا۔

عَرْض (ن) عَرْضًا: مکہ یا مدینہ یا ان کے اطراف میں جانا..... الکتاب: زبانی پڑھنا۔

عَرْض (ک) عَرْضًا وعَرْضًا: چوڑا ہونا۔ صفت عَرْض وعَرْض:

عَرْض ولہ وہ: تعریف کرنا۔ کسی دوسرے پر ڈھال کے بات کہنا..... الشئ: چوڑا کرنا..... المتعاع: سامان کو درہم و درہم دینا نیز کے علاوہ سامان کے بدلے فروخت کرنا.....

الکتاب: مبہم لکھنا..... الشئ للشئ: مقابل کرنا کہا جاتا ہے "عَرْضت مالک

للفلک" تم نے اپنے مال کو برباد ہونے کے لئے پیش کر دیا..... ہ من ماله بگذا:

بدلہ دینا..... فلان: عمدہ رائے والا ہونا۔

اعرض عنه: روگردانی کرنا..... الشئ: چوڑا کرنا..... المسئلة: لمبا چوڑا سوال کرنا۔

فی المنکارم: بہت فیاض ہونا۔

الامر: ظاہر ہونا۔ کہا جاتا ہے "عَرْضتہ فاعرض" یعنی میں نے اسے ظاہر کیا پس وہ ظاہر ہو گیا۔ الشوب: وسیع ہونا۔ کہا جاتا ہے "اعرض لك الخیر" یعنی تمہیں خیر کرنے کی قدرت ہے و "اعرض لك الظنی" فارہ" تمہارے سامنے ہرن ظاہر ہوا پس اسے تیرا رو۔

عَارِضَةٌ مَعَارِضَةٌ وَعَارِضًا: پھر جانا۔ کیسو ہوتا۔ عَارِضٌ الْكِتَابُ بِالْكِتَابِ: کتاب کا کتاب سے مقابلہ کرنا..... الرَجُل: کلام پر نقض وارد کرنا۔ مقاومت کرنا۔ دوسرے کی طرح کام کرنا..... ہ فی المبیہ: چلنے میں برابر کرنا۔ عَارِضٌ الرَجُلُ: راستہ میں ایک جانب ہونا۔ کہا جاتا ہے "عَارِضَه فَعَرْضَه" اس نے معارضہ کرنے میں مقابلہ کیا اور غالب رہا۔

تَعَرَّضَ الامرُ وَلِلامرِ وَالی الامرُ: درپے ہونا۔ طلب کرنا..... الشئ: ٹیڑھا ہونا۔ ایک جانب ظاہر کرنا۔ فاسد ہونا۔

تَعَارَضَ الرَجُلَانِ: ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔

اعترض: چوڑائی میں ہونا..... لہ: منع کرنا..... البعیر: سرکش اونٹ پر سوار ہونا..... لہ: ہنہم: سامنے آ کر تیرا مارنا..... عَرْضة: عیب نکالنا۔ آبرو دکھانا..... ذون الشئ: حائل ہونا۔ روک دینا..... القائد الجند: ایک ایک کر کے پیش کرنا..... علیہ من قول او فاعرض: اعتراض کرنا۔ خطا کی جانب منسوب کرنا..... الشئ: تکلف کرنا۔ کہا جاتا ہے "عَرْضة فاعترض" اس نے اُس کو پیش کیا پس وہ پیش ہوا۔

استعرض: چوڑی چیز طلب کرنا..... الشئ: پیش کرنے کو کہنا..... ہ: کسی سے کہنا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے دکھاؤ..... القوم: بغیر دریافت حال کے قتل کرنا۔ کہا جاتا ہے "استعرض یعطی من اقبل أو اذہب" یعنی

بغیر سوال کے ہر آنے جانے والے کو دیتا ہے۔

استعرض القرب: عربوں میں سے جس سے چاہو دریافت کرو۔

العروض: اسباب۔ سامان۔ رج عَرْض: پہاڑ یا پہاڑ کا پہلو۔ بڑا لشکر۔ چوڑائی۔ وسعت۔ جنون۔ وادی۔ بہت ٹڈیاں۔ بادل..... من اللیل: رات کا ایک حصہ۔ رج عَرْض: وعراض وعراض: جزا سزا کا دن۔

العرض: التجا۔ گزارش۔ کہا جاتا ہے الشئ عَرْض عینی یعنی چیز میری نگاہ کے سامنے ہے "استرضت المتعاع بعرض" سامان کو سامان سے خریدو۔ وعَرْض الحمال عند الکتاب: حاکم کے پاس شکایت کیلئے یا کسی فائدہ کے لئے حاصل کرنے کی غرض سے درخواست دینا اور جمع کے لئے عَرْض:

الاحوال بولا جاتا ہے اعراض الشجر: درخت کی پتھلیاں۔

العرض: اچھی عادت۔ آبرو۔ باعث فخر و عزت۔ رج اعراض: کہا جاتا ہے "هو نقی العرض" وہ عیب اور گالی گلوچ سے پاک ہے جو "ذو العرض من القوم" یعنی قوم کے اشراف و "هو عرب العرض" وہ مکینہ خاندان کا ہے۔ العرض: نفس۔ کہا جاتا ہے "اکرمت عنه عرضی" یعنی میں نے اس سے اپنے نفس کو بچایا۔ جسم۔ جسم کی بو۔

سمات۔ وادی یا شہر کا کنارہ۔ وادی جس میں درخت پائی اور آبادی ہو۔ رج عَرْضان: بہت ٹڈیاں۔ بڑا لشکر۔ بڑا بادل۔ العرض من الناس: لوگوں سے بے ہوگی سے پیش آنے والا۔

العرض: جانب۔ کنارہ۔ دامن کوہ۔

من السحر والنہر: سمندر یا دریا کا وسط۔

من الحدیث: بہتر و بڑی بات۔

من السیف والعتق: تلوار یا گلے کی ایک

جانب۔ کہا جاتا ہے "نَظَرُ إِلَيْهِ عَنْ عَرُوضٍ
وَكَلْمُهُ عَنْ عَرُوضٍ گوشہ چشم سے دیکھا اور
ایک جانب ہو کر گفتگو کی۔ وَعَرُوضُوا
يَقْضُوا نُونَ النَّاسِ عَنْ عَرُوضٍ یعنی نکل کر مارنا
شروع کر دیا اور یہ پروا نہیں کی کہ کس کو مار
رہے ہیں اور کیوں مار رہے ہیں۔ وَاَضْرِبُ
بِهِ عَرُوضَ الْحَابِطِ یعنی دیوار کے ایک
گوشہ پر پھینک دو اور اعراض کرو۔ ووهو من
عرض الناس : وہ معمولی لوگوں میں سے
ہے۔

العروض: متاع۔ سامان۔ عارضہ۔ غیر دائمی
چیز۔ کہا جاتا ہے "هَذَا الْأَمْرُ عَرُوضٌ" یعنی
یہ امر زائل ہونے والا ہے۔ بخشش۔ نسیبت
..... مِنْ كُلِّ شَيْءٍ جو قائم بالذات نہ ہو بلکہ
جو ہر کے ساتھ قائم ہو۔ ج اعراض کہا
جاتا ہے "فَعَلَهُ عَرُوضًا" یعنی بغیر سوچے کچھ
ہوئے کیا۔

العروضة: پیش کرنے کی نوعیت العرض کا
مؤنث۔ یعنی لوگوں سے بے ہودگی سے پیش
آنے والی عورت۔
العروضة: ہمت۔ کشتی لڑانے کا داؤ۔ ارادہ۔
نشاندہ۔ قوت۔ کہا جاتا ہے "هُوَ عَرُوضَةٌ
لِلسَّيْفِ" وہ اس کی طاقت رکھتا ہے "هُوَ
عَرُوضَةٌ لِلنَّاسِ" وہ لوگوں کے طعن و تشنیع کا
نشاندہ ہے "هُوَ عَرُوضَةٌ لِلْكَلامِ" وہ لوگوں
کے اعتراضات کا نشاندہ ہے و"جَعَلْتَهُ
عَرُوضَةً" میں نے اس کو نشاندہ بنایا۔

العروضی: جو زمین پر قائم نہ رہ سکے۔
مِنْ الْإِبِلِ سرکش اونٹ جو ابھی اچھی طرح
نہ سمدھایا گیا ہو۔

العروض: جانب۔ گوشہ۔ کنارہ۔ حصہ۔
اونٹ کی ران میں چوڑائی میں علامت یا
کیر۔ عراض الحديث: بڑی اور بہتر بات
ج عرض۔

العروض والعروض: چوڑا۔
العراضة: عراض: کا مؤنث۔ ہدیہ جو سفر
سے آنے والا پیش کرے۔

العروض: وہ جو لوگوں سے شر کے ساتھ پیش
آئے۔

العروض: اشعار کا وزن۔ مصرعہ اولیٰ کا جزو
اخیر۔ سرکش اونٹ جو ابھی سمدھائی نہ گئی ہو۔
ج اعراض: مکہ اور مدینہ اور ان کے
مضافات۔ گوشہ۔ دامن کوہ میں راستہ۔
بادل۔ بہت چیز۔ چلنے میں سامنے کی جگہ من
الکلام: مضمون۔ کہا جاتا ہے "هَذِهِ
الْمَسْئَلَةُ عَرُوضٌ هَذِيه" یعنی یہ مسئلہ اس کی
نظیر ہے۔

العروضی: علم عروض کا جاننے والا۔

العراض: فا۔ رخسارہ۔ بادل۔ پہاڑ۔
عارضی چیز۔ کہا جاتا ہے "عَرُوضٌ عَارِضٌ"
یعنی مائع نے روک دیا۔

العراضة: مؤنث العارض: دانت جو منہ
کے عرض میں ہیں یا وہ دانت جو ہنستے وقت
ظاہر ہوتے ہیں۔ پیش آنے والی چیز۔
دروازہ کے اوپر کی لکڑی جس میں دروازہ

گھومتا ہے۔ رخسارہ۔ گوشہ۔ حاجت۔ ج
عوارض. العوارض: مکان کی چھت کی
لکڑیاں جو عرض میں رکھی ہوئی ہوں۔

العارضۃ: عمدہ رائے اور کلام کی نتیجہ۔ کہا
جاتا ہے "فُلَانٌ ذُو عَارِضَةٍ" فلاں صاحب
بیان اور فنی البدیہ کہنے والا اور فصیح ہے۔

العريض: چوڑا۔ ج عراض. دعاء
عریض: بہت زیادہ دعا "هُوَ عَرِيضُ
الْبَطَانِ" یعنی وہ مالدار اور غنی ہے۔
العريض: خسی بکرا۔

العريضة: مؤنث العريض: کیفیت کا پیش
کرنا۔

العريض في الكلام: دوسرے پر ڈھال
کے بات کہنا۔

السعروض: تور یہ کرنا..... مِنْ الْكَلامِ:
مضمون بغیر یہ کہ تیر جس کا درمیانی حصہ مونا
ہون معارضیض.

السعروض: پیش کرنے کی جگہ۔ مصنوعات
مختصرات کے نمائش کی جگہ۔ کہا جاتا ہے

"ذَكَرْتُهُ فِي مَعْرُوضٍ كَذَا".

المعروض: دہن کی شب عروسی کا کپڑا.....
الكلام المعروض: مبہم کلام۔ ج معارض
ومعارضیض: کہا جاتا ہے "إِنَّ فِى
الْمَعَارِضِ..... لَمَنْدُوحَةً عَنِ الْكُذْبِ"
تعریض میں جھوٹ سے بچنے کی گنجائش ہے۔
السعروض: حکام کے سامنے پیش کرنے کی
عرضی۔

عَرَطَ (ن) عَرَطًا وَعَارَطَ عَرُوضَ فَلَانٍ:
غیبت کرنا۔ عَارَطَ الرَّجُلُ: دور چلا جانا۔
عَرِطٌ وَأُمٌّ عَرِيطٌ وَأُمٌّ الْعَرِيطُ: بچھو۔

العَرِيطِيَّةُ: ایک درخت کی جڑ جس کا نام بجز
مریم ہے۔

عَرَّعَرَ: القارورة: شیشی بند کرنا۔ کاگ
لگانا۔ کاگ علیحدہ کرنا..... الْعَيْنُ: آنکھ پھوڑ
دینا۔

العَرَّعُرُ: سرو کے مانند ایک درخت۔ واحد
عَرَّعْرَةٌ.

العَرَّعُرُ: بدخلقی۔ کہا جاتا ہے "زَيْبُ
عَرَّعْرَهُ" یعنی بدخلق ہوا۔ دونوں نعتوں کے
بیچ کا حصہ۔ پیڑ۔

العَرَّعْرَةُ وَالْعَرَّعْرَةُ: شیشی۔ بوتل کی
ڈاٹ۔ عَرَّعْرَةُ الْجَبَلِ: پہاڑ کی چوٹی ج
عزاعر۔

العَرَّاعِرُ: شریف۔ سردار..... مِنْ الْإِبِلِ:
مونا اونٹ۔ ج عَرَّاعِرُ. العَرَّاعِرُ: کوہان
کے کنارے۔

القارورة: منحوس مرد۔ گندامرد۔ بے کوہان
کا اونٹ۔

العَرَّعُرُ: صنوبر کی قسم کا ایک درخت۔ جس
کے پھل چمک والے شروبات میں استعمال
ہوتے ہیں۔ العرعر الكادى: اس کی لکڑی
سے سیاہ تیل جلدی امراض کے لئے نکالا جاتا
ہے۔

عَرَفَ (ض) عَرَفَةً وَعَرَفَانًا وَعَرَفَانًا
وَمَعْرِفَةَ الشَّيْءِ بَيِّحَانًا. جَانَانًا..... بِذَنْبِهِ:
اقرار کرنا..... ہ۔ بدلہ دینا..... لِلْأَمْرِ: صبر

کرتا۔

عَرَفَ (ن) عَرَفَةً. عَلِي الْقَوْمِ: چودھری ہوتا۔ قوم کے معاملات کا انتظام کرنا۔ قوم کی سیاست کرنا (..... عَرَفًا) الْقَوْمِ: گھوڑے کے ایال کاٹنا۔

عَرَفَ (ک) عَرَفَةً: چودھری ہونا (..... عَرَفًا و عَرَفَةً) بہت خوشبو لگانا۔ عمدہ خوشبو ہونا۔

عَرَفَ (س) عَرَفًا: خوشبو ترک کر دینا۔ عَرَفَ الرَّجُلُ: پھیلی میں پھوڑا ہونا۔ صفت معروف۔

عَرَفَ الشَّيْءَ: خوشبودار کرنا۔ عَرَفَهُ الْأَمْرُ: واقف کرادینا۔ عَرَفَهُ بَقْلَانٍ: نام بتادینا۔ عَرَفَ الضَّالَّةَ: گمشدہ کو ڈھونڈنا..... الطَّعَامَ: سالن زیادہ کرنا..... الْأَسْمَ: اسم کمرہ کو معرّف بنانا..... الْحُجَّاجَ: حاجیوں کا عرف میں ٹھہرنا (..... وَأَعْرَفَ) فَلَانًا: خطا پر مطلع کرنا اور معاف کر دینا اور عَرَفَ الْقَوْمَ: گھوڑے کا لیے ایال والا ہونا۔

تَعَرَّفَ الْأَسْمَ: اسم کمرہ کا معرّف ہونا..... الشَّيْءَ: طلب کرنا یہاں تک کہ پہچان لینا..... الضَّالَّةَ: گمشدہ کو تلاش کرنا..... بَقْلَانٍ: آشنا ہونا..... إِلَيْهِ: واقف کرنا۔

تَعَارَفَ الْقَوْمَ: ایک دوسرے کو پہچاننا۔

إِعْرَفَ بِالشَّيْءِ: اقرار کرنا۔ ذمیل ہونا۔ تابعدار ہونا..... الشَّيْءَ: پہچاننا..... بِهِ: رہنمائی کرنا..... الرَّجُلَ: دریافت کرنا.....

إِلَيْهِ: نام اور حال کی اطلاع دینا..... لِلْأَمْرِ: مہر کرنا..... الضَّالَّةَ: گمشدہ کا مالک ظاہر کرنے کے لئے اوصاف بتانا۔

إِسْتَعْرَفَ الشَّيْءَ: پہچاننا..... إِلَى فَلَانٍ: واقفیت کے لئے نسبت بیان کرنا۔

إِعْرُوفَ لِسَلْسَرٍ: برائی کے لئے آمادہ ہونا۔

الذَّمُّ: خون کا جھاگ والا ہونا..... الرَّجُلُ: سوار کا گھوڑے کے ایال پر سوار ہونا..... الرَّجُلُ: درخت خرما پر چڑھنا۔

العَرَفُ: بو۔ اکثر خوشبو کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے "مَا أَطْيَبَ عَرْفَهُ" اس کی خوشبو کیسی اچھی ہے۔ العَرَفُ: جود۔ بخشش۔

بھلائی۔ عطیہ۔ اقرار۔ کہا جاتا ہے "لَهُ عَلِيٌّ أَلْفٌ عَرَفًا" اس کے میرے اوپر ہزار ہیں مجھے اقرار ہے۔ ایال۔ مرغ کی کلفتی۔ نیکی۔ العَرَفُ: موج۔ اونچی جگہ۔ آگے پیچھے۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ الْقَوْمُ عَرَفًا" یعنی قوم آگے پیچھے آئی ج عَرَفُ وَأَعْرَافُ. العَرَفُ: اصطلاح۔ تسلیم کردہ باتیں۔ عَرَفَ اللِّسَانَ: اصطلاح لغوی۔ عَرَفَ الشَّرْعَ: اصطلاح شرعی۔

العَرَفُ والعَرَفُ: صبر۔ العَرَفُ: ایال۔ ریت کی اونچی جگہ۔ العَرَفَةُ: ہوا۔ پھیلی کا زخم (..... والعَرَفَةُ) دریافت۔ سوال۔

العَرَفَةُ: دو چیزوں کے درمیان کی حد۔ ریت کی اونچی جگہ۔ ج عَرَفُ. عَرَفَةُ: مکہ کے قریب ایک پہاڑ کا نام۔ نویں ذی الحجہ۔

عَرَفَات: مکہ سے بارہ میل کے فاصلہ پر ایک پہاڑی جو حاجیوں کے لئے نویں تاریخ کو ذی الحجہ میں وقوف کرنے کی جگہ ہے اور نسبت کے لئے عَرَفَاتِي. العَرَافَةُ: نجومی کا پیشہ۔ العَرَافُ: نجومی۔ طیب۔ العَرَفَانُ: مص۔ معروف۔

العَرَفَانُ والعَرَفَانُ: اقرار کرنے والا۔ بتانے والا۔

إِلَاعِزَافٍ: مص۔ پادری کے سامنے گناہ کا اقرار کرنا۔

السَّعَافُ: فاصبر کرنے والا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا أَمْرٌ عَارِفٌ" یعنی معروف ہے۔ العَارِفَةُ: مؤنث عارف۔ معروف۔ عطیہ۔

عَرَفَ: ج عَرَفَاتِي. العَرَفَاتِي: ریت جس میں راستہ نہ ہو۔

عَرَفَ: ج عَرَفَاتِي. العَرَفَاتِي: ریت جس میں راستہ نہ ہو۔

عَرَفَ: ج عَرَفَاتِي. العَرَفَاتِي: ریت جس میں راستہ نہ ہو۔

عَرَفَ: ج عَرَفَاتِي. العَرَفَاتِي: ریت جس میں راستہ نہ ہو۔

عَرَفَ: ج عَرَفَاتِي. العَرَفَاتِي: ریت جس میں راستہ نہ ہو۔

عَرَفَ: ج عَرَفَاتِي. العَرَفَاتِي: ریت جس میں راستہ نہ ہو۔

عَرَفَ: ج عَرَفَاتِي. العَرَفَاتِي: ریت جس میں راستہ نہ ہو۔

عَرَفَ: ج عَرَفَاتِي. العَرَفَاتِي: ریت جس میں راستہ نہ ہو۔

عَرَفَ: ج عَرَفَاتِي. العَرَفَاتِي: ریت جس میں راستہ نہ ہو۔

عَرَفَ: ج عَرَفَاتِي. العَرَفَاتِي: ریت جس میں راستہ نہ ہو۔

عَرَفَ: ج عَرَفَاتِي. العَرَفَاتِي: ریت جس میں راستہ نہ ہو۔

عَرَفَ: ج عَرَفَاتِي. العَرَفَاتِي: ریت جس میں راستہ نہ ہو۔

عَرَق (ن) عَرَقًا وَمَعْرَقًا. الْعَظْمُ: ہڈی پر سے سارا گوشت کھالینا۔ کہا جاتا ہے "عَرَقْتَهُ الْخَطُوبُ" حوادث نے اس کو پوری طرح سے گھیر لیا..... الطَّرِيقُ: قطع مسافت کرنا (..... عَرَقًا وَعَرُوقًا) فِي الْأَرْضِ: سفر کرنا۔

عَرَق عَرَقًا: دہلا ہونا۔ کم گوشت ہونا۔
عَرَق (س) عَرَقًا: پینڈا آنا۔ "فت عَرَقَانِ..... الْحَائِطُ: دیوار کا تر ہونا..... الرَّجُلُ: کابل ہونا۔

عَرَق: پینڈا لانا۔ عَرَقَ وَأَعْرَقَ الشَّجَرُ: لمبی جڑ والا ہونا۔ عَرَقَ وَالْحَمِيرُ: شراب میں تھوڑا پانی ملانا۔ عَرَقَ وَأَعْرَقَ الْإِنْسَاءُ: برتن میں تھوڑا پانی ڈالنا۔ أَعْرَقَ الرَّجُلُ عِرَاقَ: عراق میں جانا۔ خاندانی شریف ہونا۔

أَعْرَقَ الشَّجَرُ: لمبی جڑ والا ہونا..... الْعَظْمُ: ہڈی پر جو کچھ گوشت ہو کھالینا..... الْقَوْمُ عِرَاقَ: عراق میں جانا۔ کہا جاتا ہے "تَعْرَقْتَهُ الْخَطُوبُ" حوادث نے اس کو پوری طرح گھیر لیا۔

إِسْتَعْرَقَ: پینڈا لانے کے لئے گرمی کے درپے ہونا..... الشَّجَرُ: لمبی جڑ والا ہونا۔
العَرَقُ: ہڈی جس پر سے گوشت اتار لیا گیا ہو۔ عِرَاقَ وَعَرَقًا۔

العِرَاقُ: ہر چیز کا اصل..... مِنْ الْبَدَنِ: رگ بدن۔ دشوار گزار پہاڑ۔ چھوٹا پہاڑ۔ تھوڑا پانی۔ شور زمین۔ دودھ۔ بہت اولاد۔ ریت کی باریک اور لمبی دھاری۔ عِرَاقُ عَرَقًا: ذاء عِرَاقِ النَّسَاءِ: وجع مفاصل کی ایک قسم جو ران سے شروع ہوتی ہے اور گھٹنے یا قدم تک پہنچتی ہے۔

العَرَقُ: ہمس۔ پینڈ۔ دیوار کی تری۔ دودھ اس لئے کہ رگوں سے کھینچ کر ٹھن میں پھینچتا ہے۔ دیوار میں کچی اینٹوں یا پتھر کی قطار اور عام لوگ اسے "بِذْمَاك" کہتے ہیں۔ پہاڑ کے راستے۔ ایک قطار میں اونٹوں کے چلنے

العَرَقُ: ہڈی جس کا گوشت کھالیا گیا ہو۔ کثیر بارش۔ عَرَاقِي الْغَيْثِ: بارش کے بعد روئیدگی۔

العُرَاقُ: کثیر بارش۔
العَوَارِقُ: واڑھیں۔
العِرْقُ: چھری وغیرہ جس سے ہڈی پر سے گوشت اتارا جاتا ہے۔

رَجُلٌ مَعْرَقٌ وَمَعْرُوقٌ الْعِظَامُ: دُوبلا۔
عَرَقَبَ الرَّجُلُ: حیلہ کرنا..... الْبَدَايَةُ: کوچیوں کا ٹا۔ کھرا کرنے کے لئے کوچیوں اٹھانا۔

تَعَرَقَبَ: حیلہ کرنا۔ عَرَقُوبُ: کماند ہونا۔ (دیکھو لفظ عَرَقُوبُ)..... عَيْنُ الْأَمْرِ: باز رہنا۔ پہاڑ پر تنگ راستوں میں چلنا..... لِحْصَمِهِ: دشمن کے لئے مخفی طریقہ اختیار کرنا۔

العَرَقُوبُ: کوچ۔ ایزی کے اوپر کا پتھا۔ وادی کا موڑ۔ پہاڑی راستہ۔ حیلہ۔ عِرَاقِيْبُ وَعَرَقِيْبُ الْأُمُورِ: مشکل کام۔ عَرَقُوبُ نام ایک شخص کا جو جھوٹ اور وعدہ خلافی میں ضرب اٹھاتا تھا۔

عَرَقَصَ الْغُلَامُ: لڑکے کا ناچنا۔ عَرَقَصَتِ الْحَيَّةُ: سانپ کا رینگنا۔
عَرَقَلُ: توسط سے ہٹ جانا..... الْأَمْرُ: دشوار کر دینا..... عَلَيْهِ الْكَلَامُ: ٹیڑھا کرنا۔

تَعَرَقَلُ الْأَمْرُ: پیچیدہ ہونا..... الْكَلَامُ: ٹیڑھا ہونا۔

العِرْقَالُ: گمراہ۔ کج رو۔
العِرْقِيلُ: اٹلے کی زردی۔
العِرْقِيلُ: مہمیتیں۔ عِرْقِيلُ الْأُمُورِ: دشوار امور۔

العِرْقَالِيُّ: ناز و بخت کی چال۔
عَرَكَ (ن) عَرَكًا. الْأَدِيمُ: چیز سے کولناٹا۔
الدَّهْرُ: زمانے کا کسی کو تجربہ کار بنانا.....
السُّيُ: رگڑتے رگڑتے مٹا دینا..... الْمَأْشِيَةُ النَّبَاتُ: جانوروں کا ساری نباتات کو کھانا جانا..... الْمَأْشِيَةُ الْأَرْضُ: چارے سے خالی کر

کے نشان۔ دوڑ۔ کہا جاتا ہے جَرَى الْفَرَسُ عَرَقًا او عَرَقَيْنِ: گھوڑا ایک یا دو مرتبہ دوڑا..... مِنَ النَّصْرِ: مجبور کارس۔ عَرَقُ الْخِلَالِ: دوست کا عطیہ۔ عَرَقُ كَالِاطْلَاقِ شَرَابٍ: پر بھی ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے "لَقَبْتُ مِنْهُ عَرَقَ الْقِرْبَةِ" و "تَحَشَّمْتُ إِلَيْكَ عَرَقَ الْقِرْبَةِ" مشقت اور شدت سے کنایہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ میں نے ایسی مشقت اٹھائی جیسے کہ مشک کا اٹھانے والا کہ اس کو بوجھ کی وجہ سے پینڈا آتا ہے۔

العَرَقِيَّةُ: عمامہ اور ٹوپی کے نیچے کا کپڑا۔
العَرَقُ وَالْعَرَقَةُ: بہت پینڈ والا۔
السَّعْرَقَةُ: اسم مرہ۔ گوشت کا کھلا۔ پہاڑ میں راستے۔
العِرْقَةُ: اصل۔ درخت کی جڑ کا ریشہ۔ عِرْقُ عَرَقٌ وَعَرَقَاتُ.

السَّعْرَقَةُ وَالْعَرَقَةُ: اصل۔ درخت کی جڑ کا ریشہ۔
العَرَقَةُ وَالْعَرَقَةُ: ڈول کے منہ کی لکڑی ج العَرَقَاتِي.

العَرَقَةُ: دیوار میں کچی اینٹوں یا پتھر کی قطار۔ گھوڑوں یا پرندوں کی قطار۔ شہتیر۔ دھنی۔ خیمہ کے ارد گرد کا پھندا ج عَرَقُ وَعَرَقَاتُ. السَّعْرِيْقُ وَالْمَعْرَقُ: خاندانی شرافت یا کینگی۔ غُلَامٌ عَرَقِيْقٌ: دہلا لڑکا (..... وَالْأَعْرَقُ)

صاحب اصل۔ کہا جاتا ہے "هُوَ أَعْرَقُ مِنْكَ فَيْئُ كَمَدًا" وہ فلاں چیز میں تم سے زیادہ صاحب اصل ہے۔

العِرَاقُ: طول میں سمندر کا کنارہ۔ پر کا جوف..... مِنْ الدَّارِ: گھر کا حمن..... مِنَ الظُّفْرِ: ناخن کے ارد گرد گوشت..... مِنَ الْأَذْنِ: کان کا گھیرا۔ مِنَ النَّهْرِ: ندی کا کنارہ ج أَعْرَقَةٌ وَعُرُقٌ وَعُرُقٌ وَالْعِرَاقُ: ملک عراق جو عمادان سے موصل تک بھولا اور قادسیہ سے طوان تک عرضاً ہے۔
العِرَاقَانُ: کوفہ و بصرہ۔

دینا)..... عَرَاکَا وَعَرَاکَا وَعَرُوکَا (المَرْأَةُ: عورت کا حائضہ ہونا۔ کہا جاتا ہے "عَرَاکَ الْأَذَى بِجَنْبِهِ" یعنی اس نے مشقت اٹھائی۔
 عَرَاکَ (س) عَرَاکَا: سخت حملہ آور ہونا۔ صفت عَرَاکَ.
 عَارَاکَةُ مَعَارَاکَةُ وَعَرَاکَا: مقاتلہ کرنا۔ مزاحمت کرنا۔ کہا جاتا ہے "أَوْرَدَا بِلَسَانِهِ عَرَاکَا" یعنی وہ سارے اونٹوں کو پانی پر لایا۔
 تَعَرَاکَ الشَّيْءُ: ملا جانا۔
 تَعَارَاکَ الرَّجُلَانِ: ایک دوسرے سے مقاتلہ کرنا۔
 اِغْتَرَاکَ: آپس میں جنگ کرنا۔ "اِغْتَرَاکَ النَّاسُ فِي الْمَعْرَاکَةِ أَوْ الْخُصُومَةِ" لوگوں کا میدان جنگ میں تل و قتال کے لئے پل پڑنا..... الاِبِلُ فِي الْوَرْدِ: اونٹوں کا گھات پر اترنے میں بھیڑ کرنا..... الرَّجَالُ فِي الْحَرْبِ: انہوہ کرنا اور ایک دوسرے کو رگڑنا۔
 العَرَاکَ وَالْعَرَاکَ: آواز۔
 العَرَاکِيُّ: پھل کی کاشکاری۔ عَرَاکَ بِنَجْ عَرُوکَ.
 العَرَاکَةُ: بار بار۔ کہا جاتا ہے لَقِيْتَهُ عَرَاکَةَ وَعَرَاکَاتٍ.
 العَرَاکَةُ: مشقت برداشت کرنے والا۔
 العَرَاکَةُ: کو بان۔ نفس۔ طبیعت۔ عادت۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ لَتِيْنُ الْعَرَاکَةِ" یعنی نرم خو ہے۔ "هُوَ شَدِيْدُ الْعَرَاکَةِ" یعنی وہ سخت مزاج ہے۔ عَرَاکَ بِنَجْ.
 المَعْرَاکَ وَالْمَعْرَاکَةُ وَالْمَعْرَاکَةُ: میدان جنگ مَعَارَاکَ.
 المَعْرَاکَ: میدان جنگ۔ مَعْرَاکَ.
 المَعْرَاکَةُ: انسان کی عمر سے ساٹھ اور ستر سال کے درمیان۔
 المَعْرَاکَ: فنا۔ جنگجو۔ سخت حملہ آور۔
 المَعْرُوکَ: مفتح۔ مَعْرَاکَ مَعْرُوکَ: جس پر

پانی پر بھیڑ زیادہ ہو۔ اَرْضُ مَعْرُوکَةَ: جس زمین کو جانوروں نے چر کر صاف کر دیا ہو۔ "زَمَلُ مَعْرُوکَ وَعَرَاکَ" جمع شدہ ریت ایک دوسرے میں داخل۔
 عَرَاکَسَ: الشَّيْءُ: تہ تہ ہونا..... الشَّيْءُ: تہ تہ کرنا۔
 اِعْرَاکَسَ: جمع ہونا اور تہ تہ ہونا..... الشَّعْرُ: بالوں کا سخت کالا ہونا۔
 عَرَمَ (نض) عَرَمًا: العَظْمُ: ہڈی سے گوشت اتار لینا..... الضَّبِيُّ أُمَةٌ: بچے کا اپنی ماں کا دودھ پینا..... الاِبِلُ الشَّجَرُ: اونٹ کا درخت سے پتے کھانا..... فَلَانًا: تکلیف پہنچانا۔
 عَرَمَ (نض) عَرَمًا وَعَرَمَ (س) وَعَرَمَ (ک) عَرَامَةً: شدید سخت ہونا۔ شوخ ہونا۔ بہت خوش ہونا۔ بدخلق ہونا۔ خراب ہونا۔ صفت عَرَامَ وَعَرَمَ.
 عَرَمَ الشَّيْءُ: خلط ملط کرنا۔
 اَعْرَمَ: ناکردہ گناہ پر تہمت لگانا۔
 تَعَرَمَ: العَظْمُ: ہڈی سے گوشت اتار لینا۔
 عَلَيْنَا: بہت زیادہ خوش ہونا اور اگڑنا۔
 اِعْتَرَمَ: القَرَسُ: گھوڑے کا دوڑ اور قدم رکھنا۔ منزور ہونا..... الضَّبِيُّ لَذِي أُمَةٍ: بچے کا ماں کے پستان کو چوسنا۔
 العَارَمَ: فنا۔ بدخلق۔ موزی عَرَمَةَ: موزن عَارَمَةَ بِنَجْ عَوَارِمَاتٍ. يَوْمَ عَارِمَ: نہایت شہنشاہان۔
 العَرَمَ: چمنا ہٹ۔ ہانڈی کا بقیہ۔
 العَرَمَ وَالْعَرَمَةَ: سیاہی پیدہ ملی ہوئی۔ چھوٹے چھوٹے سیاہ سفید نقطے۔ بکری کے ہونٹ کی سفیدی۔ بکری کو (عَرَمَاء) اور بکرے کو اَعْرَمَ کہتے ہیں..... وَالْعَرَمَةَ) گیہوں کا ڈھیر جو دائیں کرنے کے بعد بھوسہ نکالنے کے لئے جمع کیا جائے۔
 العَرَمَةَ: کھانے کی بو۔ العَرَمَ: ہانڈی کا میل۔
 العَرَمَةَ: پشتہ جو وادی کے عرض میں ہو۔ عَرَمَ اور اَعْرَمَ کا لفظ جمع ہے۔ بغیر واحد کے

العَرَمَ: نر چوہا۔ شدید بارش۔ وادی۔ وادی کے پتے۔
 المَعْرَمَ: تقا یعنی سنگ خوار پر بندے کا انڈا۔
 العَرَامَ: مِنَ الْجَيْشِ: فوج کی تیزی و کثرت..... مِنَ السَّرْجَلِ: بدخلقی۔ کہا جاتا ہے "بِهَ سِلْسَلَةَ وَعَرَامَ" اس میں تیزی و بدخلقی ہے۔ ہانڈی کا میل۔
 العَرَمَ: مصیبت۔ بِنَجْ عَرَمَانَ.
 الاَعْرَمَ: رنگ برنگ۔ غیر مستقل۔ بھیڑیا بکری کا یوڑ۔ غیر مختون۔ بِنَجْ عَرَمَانَ بِنَجْ عَرَامِينَ.
 العَرَمَاءُ: مَوْنَتُ: اَعْرَمَ: جتنی دار سانپ۔
 العَرَمَمَ: سخت۔ بے شمار لشکر۔
 العَرَمِسَ: چٹان۔ مضبوط اونٹنی۔
 العَرَمَضُ وَالْعَرَمَانُ: کافی۔
 عَرَمَ (نض) عَرَمًا السَّهْمَ: تیروں کو ترتیب سے رکھنا..... عَلَى الشَّيْءِ: کسی چیز کا عادی ہونا..... البَعِيرُ: اونٹ کی ناک میں لکڑی ڈالنا۔
 عَرَمَتُ: (س) عَرَمًا: الذَّابَّةُ: عَرَمَةَ: کی بیماری لاحق ہونا (دیکھو لفظ عَرَمَةَ) صفت مذکر عَرَمَ اور صفت مؤنث عَرَمُونَ وَعَرَمَةٌ (..... عَرَمَانَ) الذَّابُّ: گھر کا دور ہونا۔
 عَرَمَ الرُّمُحَ: نیزے میں میخ لگانا۔
 اَعْرَمَ: الرَّجُلُ: ہمیشہ گوشت کھانا۔
 العَرَمَ: مہم۔ پکا ہوا گوشت۔ دھواں۔
 العَرَمَ وَالْعَرَمَانَ وَالْعَرَمَةَ: ایک بیماری ہے جس سے جانور کے پچھلے پیر کے بال گر جاتے ہیں یا جانور کے پاؤں کا پھٹنا۔
 العَرَمَانَ: لکڑی جو اونٹ کی ناک میں ڈالی جاتی ہے۔ دوری۔ بچو کا بھٹ۔ نیزے کی میخ۔ ہنسر۔ جنگ۔
 العَرَمِينَ: گھر کا گھن۔ جھاڑی۔ گوشت۔ آواز۔ شیر وغیرہ کا پھاڑا ہوا۔ عزت بِنَجْ عَرَمَانَ (..... وَالْعَرَمَانَ) شیر بچو بھیڑیے کی جھاڑی۔ سانپ کی مٹی۔
 العَرَمِينَ: ناک۔ ناک کا سخت حصہ۔ سردار

..... مِنْ كَلْبٍ شَسِيٍّ: ہر چیز کا پہلا حصہ۔ ج
عَرَابِيْنِ.

العَرَابِيْنَ: پہاڑ کا ٹکڑا ہوا حصہ۔ کبوتر کی مانند
ایک پرندہ۔ کڑی یا لوہا جس میں کاٹنے والی
روٹی کے گالے کو لپیٹ کر کاٹی ہے۔ جوار کا
بھٹا۔ عوام (عَرَبِيْنَ) کہتے ہیں ج
عَرَابِيْس.

عَرَابِيْعُوْا عَرُوْا. فَلَانَا اَمْرٌ: پیش آنا۔ فلانا:
عطیہ مانگنے کے لئے قصد کرنا۔ صفت فاعلی
عار اور صفت مفعولی مَعْرُوٌّ..... الْقَمِيْصُ:
کرتے میں کاج بنانا..... (وَعَرِي) بخار کی
سردی لاحق ہونا۔ صفت عَارِي ج عَرَاةٌ اور
مَعْرُوٌّ. وَعَرِي الرَّجُلُ: خوف کی لچکی لاحق
ہونا۔

أَعْرَى وَعَرَى الْقَمِيْصُ: کرتے میں کاج
بنانا۔ أَعْرَى صَاحِبَةٌ: چھوڑ دینا۔

إِعْتَرَى اِعْتَرَاءً. فَلَانَا: عطیہ مانگنے کے لئے
جانا۔ اِعْتَرَاءُ اَمْرٌ: لاحق ہونا۔

العِرْوُ: گوشہ۔ وہ جو امور کا اہتمام نہ کرے۔
لوگوں کی جماعت ج عِرَاءُ: کہا جاتا ہے
"أَسَاعِرُوْ مِنْ كَثْمًا" میں فلاں چیز سے خالی
ہوں "وَبِهَذَا اَعْرَاءٌ مِنَ النَّاسِ" اس کے
ساتھ جماعتیں ہیں۔

العِرْوَاءُ: بخار کی سردی۔
العِرْوَةُ مِنَ الْإِبْرِيْقِ وَنَحْوَهُ: پھاگل لوٹے
کا دستہ۔

العِرْوَةُ وَالْعَرِي وَالْعَرِي: کاج۔

العِرْوَةُ: گنجان درخت۔ درخت جس کے
پتے جاڑے میں نہ گریں۔ نفیس مال۔ قابل
اعتماد چیز۔ کہا جاتا ہے "أَنَا عِرْوَةٌ مِنْهُ" میں
اس سے خالی ہوں۔ "أَلْقَى إِلَيْهِ الْعَرِي"
یعنی اس نے فلاں کو معاملہ سپرد کر دیا۔

عَرِي يَغْرِي عَرِيَّةً وَعَرِيًّا مِنْ يَبَابِهِ: ننگا
ہونا۔ صفت مذکر عَارِي وَعَرِيَانِ ج عَرَاةٌ:
صفت مؤنث عَارِيَّةٌ وَعَرِيَانَةٌ ج عَوَارٍ
وَعَارِيَاتٍ. عَرِي مِنَ الْعَيْبِ وَغَيْرِهِ: عیب
وغیرہ سے پاک صاف ہونا۔ صفت عَرَرٌ

(..... عَرِي) اللَّيْلَةُ: رات ٹھنڈی ہونا۔
عَرَاهُ يَغْرِيهِ عَرِيًّا. الْأَمْرُ: پیش آنا۔

عَرِي تَغْرِيَةُ الرَّجُلِ النَّوْبُ وَمِنْ النَّوْبِ:
ننگا کرنا..... هُ مِنَ الْأَمْرِ: علیحدہ کرنا۔ ٹھنڈا
لینا..... السَّرَجُلُ: بے کار کر دینا۔ چھوڑ دینا
..... الشَّيْءُ: دستہ لگانا۔ کہا جاتا ہے "عَرَاهُ
بَعْرِي وَتَيْقَبَهُ" مضبوط دستہ لگانا۔

أَعْرَى اِعْرَاءً الرَّجُلِ النَّوْبُ وَمِنْ النَّوْبِ:
ننگا کرنا۔ کپڑے اتار لینا..... فَلَانَا النُّخْلَةَ:
کسی کو ایک سال کے لئے پھل بہہ کرنا.....
فَلَانَا صَدِيْقَهُ: دور ہونا اور مدد نہ کرنا.....
السَّرَجُلُ: رات کی ٹھنڈک لگانا۔ کھلے میدان
میں چلنا یا اقامت کرنا۔

تَعْرَى تَعْرِيًّا مِنْ يَبَابِهِ: کپڑے اتار لینا۔ ننگا
ہونا۔

اِعْرُوْزِي اِعْرِيْوَاءً: تہا سفر کرنا..... الفَرَسُ:
نگلی پیٹھ پر سوار ہونا..... اَمْرًا قَبِيْحًا: قبیح کام
کرنا۔

العَرِي: گوشہ۔ میدان۔ سردی۔
العَرَاءُ: کھلا میدان۔ ج اَعْرَاءُ.

العَرَاةُ: میدان۔ مکان کا گھن۔ سردی کی
شدت۔

فَرَسٌ عَرِيٌّ: ننگی پیٹھ کا گھوڑا۔ بلا زین کے
گھوڑا۔ ج اَعْرَاءُ.

الاعْرَاءُ: آزاد لاپرواہ لوگ۔ واحد عَرِيٌّ.
العَرِيَّةُ وَالْعَرِيَّةُ: ننگا پن۔

العَارِيَّةُ: ادھار لی ہوئی چیز۔

العَرِيَانُ: ننگا۔ عَرِيَانُ النَّجِي: جو اپنے بھید کو
نہ چھپائے۔

عَرِيْسَاتُ الْبُرُوْرُ: (ن) بیج سے خالی
پودے جیسے صنوبر کے درخت۔
العَرِيٌّ: ٹھنڈی ہوا۔

السَّرِيَّةُ: ٹھنڈی ہوا۔ گھوڑا درخت جس کا
پھل کھا لیا گیا ہو۔ گھوڑا درخت جس کے
مالک نے دوسرے کو پھل کھانے کے لئے
دے دیا ہو۔ ج عَرَاةٌ کہا جاتا ہے "نَخْلُهُمْ
عَرَاةٌ" یعنی ان کے درخت خراب شدہ ہیں

کرم کی وجہ سے دوسروں کو پھل کھانے کے
لئے دے دیتے ہیں۔

المَعْرَى والمَعْرَاةُ: ننگا پن۔ بدن کا وہ حصہ
جو کپڑے سے نہ چھپایا جائے جیسے ہاتھ چہرہ
وغیرہ ج مَعْرَاةُ. المَعْرَاةُ: شجر مقامات۔
بچھونے۔

عَرَّ (ض) عَرًَّا وَعَرَّةً وَعَرَاةً: عزیز ہونا۔
قوی ہونا۔ ضعیف ہونا..... الشَّيْءُ: قلیل
ہونا۔ کیا ب ہونا۔ دشوار ہونا..... الْمَاءُ:
بہنا۔ عَرَّ عَلَيْهِ عَرًَّا: کرم ہونا۔ کہا جاتا ہے
"عَرَّ عَلَيَّ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا" میرے اوپر سخت
اور دشوار ہے کہ تم ایسا کرو۔

عَرَّةٌ (ن) عَرًَّا: قوی کرنا۔ عزت کی کوشش
میں غالب کرنا۔

عَرَّةٌ: مدد کرنا۔ تعظیم کرنا۔ معزز بنانا۔

عَرَاةٌ مُعَارَاةٌ: حصول عزت میں مقابلہ کرنا۔
گفتگو میں غالب ہونا۔

أَعْرَزْتُ اِعْرَازًا: عزیز بنانا۔ محبت کرنا۔ اَعْرَزْتُ
البَقْرَةَ: گائے کا واضح حمل دشوار ہونا۔ کہا جاتا
ہے "أَعْرَزْتُ بِمَا أَصَابَكَ" جو کچھ تم پر
گزارے اس سے مجھے تکلیف ہوئی۔

اِعْتَرَّ: قوی ہونا..... بِه: اپنے آپ کو طاقتور
قوی سمجھنا۔ فخر کرنا..... غَلِيٌّ فَلَانٌ بَرِيٌّ
جتانا۔ غالب آنا۔

تَعَرَّرَ: قوی ہونا..... بِه: فخر کرنا..... لِحْمَةٌ:
سخت اور ٹھوس ہونا۔

اِسْتَعَرَّ. عَلَيْهِ: سختی کرنا۔ غالب ہونا۔

..... اللَّيْلَةُ بِفَلَانٍ: وفات دینا۔ کہا جاتا ہے
"اِسْتَعَرَّ بِحَقِّي" یعنی میرے اوپر غالب آ
گیا "وَأَسْتَعَرَّ بِعَلِيٍّ" یعنی بیماری بڑھ گئی اور
اس کی عقل پر غالب آ گئی۔

العِرُّ: عزت۔ سخت بارش۔
رَجُلٌ عَرٌّ: قوی۔ کہا جاتا ہے "جَنَسِيْ بِه
عَرَّ اِبْرًا" اس کو جس طرح سے بولے آؤ۔

العِرَّةُ: ہرن کا مادہ بچہ۔

العِرَّةُ: حصول عزت کے مقابلہ میں غالب
ہونا۔ حمیت۔

العزیز: شریف۔ قوی۔ نادر۔ معزز۔ بادشاہ بلند کمر اس کا حصول دشوار ہو اور وہ مغلوب نہ ہو اور کوئی اسے عاجز نہ کر سکے اور اس کے مانند کوئی نہ ہو اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے حج عزاز و اعزاء و اعزۃ: حاکم مصر کا لقب۔
 الاعز: اسم تفضیل۔ عزیز۔
 العزعی: عزیزہ۔ شریفہ۔ (اعز) کا مؤنث۔
 قریش کے ایک قبیلے کا نام۔
 العزراء: شدت۔ سخت سال۔ بڑی بوند کی بارش۔
 المیزان: سخت مرض والا۔
 المسعوزۃ: سختی۔ زمین جس پر سخت بارش ہوئی ہو۔
 عزب (ن) عزبۃ و عزوبۃ: بے زوج کے ہونا۔ مجرور ہونا۔
 عزب (نض) عزوبۃ: دور ہونا۔ غائب ہونا۔ پوشیدہ ہونا۔ صفت عازب عزبت الارض: زمین کا ویران ہونا۔
 عزب: دیر تک غائب رہنا۔ شروع کئے ہوئے کو چھوڑ دینا۔
 اعزب: دور ہونا۔ دور کرنا۔ بے زوج کر دینا۔
 تعزب: مجرور بننے کے بعد گھر لسانا۔
 العازب: قافلہ دور کی چراگاہ۔
 العزایب: مؤنث عازب: مرد کی بیوی حج عوازب۔
 العزب: وہ مرد یا عورت جس کے زوج نہ ہو۔ اور کہا گیا ہے کہ "عزب" مرد کے لئے اور عزبۃ: مؤنث کے لئے۔ حج عزاب و اعزاب۔
 الاعزب: جس کے اہل و عیال نہ ہوں۔ وہ شخص جو اپنے اہل و مال سے دور ہو گیا ہو۔ مؤنث عزاب حج عزب۔
 المیعزۃ: باندی۔ لونڈی (..... والمعزۃ) بیوی۔
 المیعزاب والمیعزۃ: وہ شخص جو اپنے

جانوروں کو دور چرانے کے لئے لے جائے "المیعزۃ: جس کے اہل نہ ہوں۔ جس کا کنوارہ پن دیر تک رہے۔
 عزج (ن) عزجھا الرجل: دفع کرنا۔
 الارض بالمسحاة: پیچھے سے زمین کو اڑت پلٹ کرنا۔ جماع کرنا۔
 عزذ (ف) عزذہ: جماع کرنا۔
 عززۃ (ض) عززۃ: ملامت کرنا۔ اعانت کرنا۔ جماع کرنا۔
 واپس کر دینا۔
 علی الفرائض والاحکام: فرائض اور احکام سے واقف کر دینا۔
 عززۃ: ملامت کرنا۔ ادب دینا۔ سخت مارنا۔ تعظیم کرنا۔ اعانت و مدد کرنا۔
 العزور والعزور: بدخلق۔
 العزورۃ: مؤنث۔ عزور۔ نیلہ۔
 العزائر: کڑیاں۔ درختوں کا بقایا (بغیر واحد کے جمع ہے)
 العزیر والعزائر: کئی ہوئی گھاس کی قیمت۔
 عزرائیل: فرشتہ ملک الموت کا نام۔
 عزعزۃ: عزت میں غالب آنا۔
 عزط (ن) عزطۃ: جماع کرنا۔
 عزف (نض) عزفۃ و عزوفۃ: نفسہ وغین الشیء: بے رغبتی کرنا اور طول ہونا (..... عزفۃ) نفسہ عن کذا: منع کرنا (..... عزفۃ وغینفۃ) آواز دینا۔ گانا۔
 عزف: آواز دینا۔
 اعزف: ہوا کی سرسراہٹ سننا۔
 تعازفوا: ایک دوسرے کے سامنے رجز پڑھنا۔ آپس میں فخر کرنا۔ ایک دوسرے کی جھوکرنا۔
 اعزوزف: لیسلسز: برائی کے لئے آمادہ ہونا۔
 العازف: آلات ہوسے کھیلنے والا۔ گویا۔
 العزف: دف کی آواز۔ ہوا کی سرسراہٹ۔
 العزف: جنگلی کبوتر۔
 العزوف والعزوفۃ: جو کسی کی دوستی پر قائم نہ

رہے۔ کہا جاتا ہے "لھسو عزوف عن اللھسو" وہ کھیل کود سے کنارہ کش ہے۔ حج عزاف و عزوفۃ: میں تا مبالغہ کی ہے تا بیست کی نہیں۔
 العزاف: بمعنی عزف: مصدر۔
 العزاف: بہت باجا بجانے والا۔ بہت گانے والا۔ سحاب عزاف: بہت گرجنے والا بادل۔
 المیعزف والمیعزۃ: گانے بجانے کے آلات حج معازف۔
 اعزوزف لیسلسز: شرارت کے لئے تیار ہونا۔
 عزق (ن) عزقۃ: تیز دوڑنا۔ الخبیر عینی: روک لینا۔
 عزق (ض) عزقۃ الارض: زمین کو کھودنا۔
 عزق (س) عزقۃ بہ: چپکنا۔
 العزق: بدخلق۔ حج عزق۔
 العزوق والعزوق: بے مغز کا پتہ۔ زنجیل عزوق: سخت مزاج۔ زنجیل و بدخورد۔
 العزیق: بین الارض: پست زمین۔
 المیعزق والمیعزۃ: ہوا میں گہوں صاف کرنے کا آلہ۔ کھودنے کے آلات جیسے پھاوڑا۔ کدال۔ پیچہ۔ حج معازق۔
 المعتزق: بدخلق۔
 عزلۃ (ض) عزلا: عن کذا: جدا کر دینا۔
 فلانۃ عن منصبہ: علیحدہ کر دینا۔
 معزول کر دینا۔
 عزلۃ: ایک جانب کر دینا۔
 تعزل و اعززل: الشیء وغنہ: جدا ہو جانا۔
 تعازل القوم: بعض کا بعض سے جدا ہونا۔
 العزل: بے ہتھیار و سامان ہونا۔ عزل الجسم: گدھے کا پیچھا حصہ۔ العزلة: سرین کی ہڈی کا سرا جو بیٹھنے میں زمین سے ٹکے۔
 العزل و العزال: کمزوری۔

الْعَزْلَةُ: جدائی۔ گوشیشنی۔

الْعَزَالُ: وہ مادہ جو بجلی اور گری کے داخل ہونے کو روکے۔

خنگ لکڑی دونوں کو روکتی ہے اور شیشہ بجلی کو روکتا ہے۔

العزل: بے ہتھیار مرد و عزال۔

الاعزول: علیحدہ ریت کا ڈھیر بے بارش کا بادل۔ بے ہتھیار عزال و اعزول و عزالان: مؤنث عزالاء۔ الاعزول من السدواب: دم کو جھکا ہوا رکھنے والا۔ ومن السطی: پرندہ جو اڑنے پر قادر نہ ہو۔

الاعزول: نام دوستاروں میں سے ایک کا کہ دوسرے کا نام "زامع" ہے۔

العزلاء: الاعزول: کامؤنث۔ دیر۔ مکک کا مندرج العزالی والعزالی: کہا جاتا ہے "انزلت السماء عزاليها" یعنی آسمان نے اپنے دہانے کھول دیئے۔ اشارہ ہے شدت بارش کی جانب کہا جاتا ہے "هو عن الخني بمعزل" یعنی وہ جس سے بعید جدا گانہ ہے۔

المعزلة والعزال: قدر ریبی کی ایک جماعت جو اپنے خیال سے اہل سنت والجماعت اور خوارج دونوں کو گمراہ سمجھ کر جدا ہو گئے تھے۔

المعزول: علیحدہ چرانے والا۔ سفر میں علیحدہ اترنے والا۔ خود رائے۔ بے ہتھیار۔ کمزور۔

الحق: معزایل۔

عزلب عزلبة: جماع کرنا۔

عزم (ض): عزمًا وعزما ومعزفاً ومعزما وعزيمًا وعزيمة وعزيمة وعزمًا الامر وعليه: پختہ ارادہ کرنا۔ الرجل: کوشش کرنا۔ الامر: واجب ہونا۔ فلان علي فلان: قسم دینا۔ کہا جاتا ہے "عزمك عليك لتفعلن الا فعلت او لئما فعلت" یعنی قسم دیتا ہوں (..... وعزم) الرائي: منتر پڑھنا۔

اغزمه الامر وعليه: ارادہ کرنا۔ الطریق: بغیر ٹھہرے ہوئے گزر جانا۔ الفرس في عنابه: سرکشی کرنا۔

تعزم: الامر وعلي الامر: ارادہ کرنا۔

العزم: پختہ ارادہ۔

العزيمة: خاندان۔ قبیلہ۔ عزم۔

العزيمة: حق۔ واجب۔ عزمت۔ عزمت الله وعزائم الله: اللہ کے حقوق و فرائض۔

کہا جاتا ہے "مسألة عزيمة" اس کے لئے ثابت و صبر نہیں۔

العزمي: کھلی بیچنے والا۔ وفادار۔ عہد کو پورا کرنے والا۔

ام العزم والعزيمة وام عزيمة: ذمیر۔ العزيم: تیز دوڑ۔

العزيمة: موکل ارادہ۔ منتر عزم۔ العزازم: قاصد عزيمة وعازمون۔ امر عازم: کام جس کا پختہ ارادہ ہو۔

العزوم: ہمیشہ اپنے عزم پر رہنے والا۔ بڑھیا۔ ذمیر۔ عزم۔

العزام: صند مخالف۔ شیر۔ المعزم: منتر پڑھنے والا۔

عزايغو وعزوا. الشئ او فلانا الي فلان: نسبت کرنا (..... عزاء) الرجل: مہر کرنا۔

عزايغو وعزوا وتعزى تعزينا اغتري اغتراء فلان والي فلان: منسب ہونا۔ عجموت دوسرے کی طرف اپنی نسبت کرنا۔

اسم (عزاء) ہے اور اسی سے ہے "اغزى بعزاء الجاهلية"۔

العزوة: لوگوں کی جماعت عزمی وعزون۔

العزوة: امتساب۔ صبر۔ عزمی عزمی عزمیا الشئ او فلانا الي فلان: نسبت کرنا۔

عزمی عزمی عزمی عزمی: مصیبت پر صبر کرنا صفت مذکر عزمی: صفت مؤنث عزمیة۔

عزمی عزمیة۔ الرجل: تسل دینا۔ تعزى تعزينا. اليه: منسوب ہونا۔ عنئه: صبر کرنا۔ تسلی حاصل کرنا۔

تعزى تعزينا. القوم: ایک دوسرے کو تسلی دینا۔

العزمي: صابر۔

العزيمة: امتساب۔

الاغتراء: دعویٰ کرنا۔ جنگ میں کوئی خاص علامت۔

عس (ن) عسا وعسسا: رات میں پاسانی میں پھیرنا..... العسیر: دیر سے پہنچنا۔ عس. القوم: تھوڑا سا کھلانا۔

اغسس: رات میں مشتہر لوگوں پر مطلع ہونا۔ الشئ: رات میں طلب کرنا یا قصد کرنا..... السلد: شہر میں داخل ہونا اور احوال سے مطلع ہونا۔

العسس: رات کے چوکیدار۔ یہ جمع ہے عاس کی۔

العسس: بڑا پیالہ۔ بڑا برتن۔ عسس وعسسة و عسس وعسس۔

العسس: رات کا چوکیدار عسس وعسس۔

العسس: رات کا چوکیدار۔ العسسوس: دودھ دوہنے کے وقت بدکنے والی اونٹنی۔ بے برکت مرد۔ شکار کو ڈھونڈنے والا۔

العسس: مطلب۔ العسب: الذنب: بھیڑیے کا بھاگنا۔

عسبہ جملة: اونٹ عاریت پر دینا۔ استعسب منه: ناپسند کرنا..... فلانا جملة: اونٹ عاریت پر لینا۔

العسب: نسل۔ کہا جاتا ہے قطع الله عسبه الله اس کی نسل کو منقطع کر دے۔ العسبة: اسم مرفوع۔ پہاڑ میں شکاف۔ العسوب: رئیس اعظم۔

العسب: ذم کی ہڈی یا اس پر بال اگھنے کی جگہ۔ پشت پا۔ کھجور کی ٹہنی جس سے پتے دور کر دیئے گئے ہوں۔ پہاڑ کا شکاف۔ عسب وعسوب وعسبان۔

العسوب: شہد کی زبھی۔ شہد کی کھبوں کا بادشاہ۔ العسوب: رئیس اعظم۔ کہا جاتا ہے "هو يعسوب قومه" وہ اپنی قوم کا

جنگ میں کوئی خاص علامت۔

عسب وعسوب وعسبان۔

العسوب: شہد کی زبھی۔ شہد کی کھبوں کا بادشاہ۔ العسوب: رئیس اعظم۔ کہا جاتا ہے "هو يعسوب قومه" وہ اپنی قوم کا

جنگ میں کوئی خاص علامت۔

عسب وعسوب وعسبان۔

عسب وعسوب وعسبان۔

رکس اعظم ہے۔ ایک چھوٹا سا پرندہ۔
گھوڑے کے چہرے کی سفیدی ج
بقایب۔

العُسْبُورُ جیتا۔ تیز رفتار اصل اونٹنی۔
العُسْبُورَةُ مادہ جیتا۔ تیز رفتار اصل اونٹنی۔
العُسْبَارُ: بچو کے مانند ایک درندہ۔ اکثر
افریقہ میں پایا جاتا ہے۔ بھیرے کا بچہ۔
العُسْبُورُ وَالْعُسْبُورَةُ: کتے کا بچہ مادہ بھیر یا
سے۔

عَسَجَ (ن ض) عَسَجًا وَعَسَجَانًا
وَعَسِجًا: چلنے میں گردن اٹھانا۔
إِعْسَجَ الشَّيْخُ: بڑھے کا خمیدہ کر ہونا۔
العَوَسَجُ: ایک کانے دار درخت۔ واحد
عَوَسَجَةٌ۔

العَسَجِدُ: سونا۔ جو ہر مانند موتی یا قوت
وغیرہ۔ مضبوط موٹا اونٹ۔

العَسَجِدِيَّةُ: شاہی سواریاں اور یہ اصل میں
ان اونٹوں کو کہا کرتے تھے جو نعمان بن منذر
بادشاہ حیرہ کے لئے آراستہ کئے جاتے تھے۔
عَسَجَرَ الطَّعَامُ: کھانے میں نمک ڈالنا۔
الرَّجُلُ: بہت تیز نظر سے دیکھنا۔

العَسَجَرُ: نمک۔
عَسَدَ (ض) عَسْدًا. الحَيْلُ: ری مضبوط
بٹنا۔ جَارِيَتُهُ: جماع کرنا۔

العَسُوَّةُ: بہت مضبوط۔ سانپ۔

عَسْرَ (ن ض) عَسْرًا وَعَسْرًا. الغَرِيمُ:
تنگ دستی میں قرض دار سے طلب کرنا.....
الزَّمَانُ: سخت ہونا..... عَلَى فَلَانٍ: مخالف
ہونا..... عَلَيْهِ مَا فِي بَطْنِهِ: بیٹ میں جو کچھ
ہو اس کا لکھنا دشوار ہونا۔

عَسْرَةَ (ض) عَسْرًا: بائیں جانب سے
آنا۔ عَسْرَتٌ وَعَسْرَانَا النَّاقَةُ: اونٹنی کا
دوڑنے میں ڈم اٹھانا..... الْمَرْأَةُ: عورت
کے چٹنے میں دشواری ہونا۔

عَسِرَ (س) عَسْرًا: بائیں ہاتھ سے کام
کرنا۔ صفت مذکر عَسِرٌ: صفت مؤنث
عَسْرَاءٌ ج عَسْرٌ۔

عَسِرَ (س) عَسْرًا وَعَسْرًا وَعَسْرًا
وَمَعْسُورًا وَعَسْرًا (ک) مَعْسُرًا وَعَسْرًا:
دشوار ہونا۔ کہا جاتا ہے "عَسْرٌ عَلَيْهِ الْأَمْرُ"
کام اس کے اوپر دشوار ہو گیا..... السَّرْجُلُ:
بدخلق ہونا۔ صفت عَسِيرٌ وَعَسِيرٌ۔

عَسْرَ الْأَمْرِ: دشوار کرنا..... عَلَيْهِ: تنگ کرنا۔
مخالفت کرنا..... يَا أَيُّهَا الْجَانِبُ: آنا۔
أَعْسَرَ: تنگ دست ہونا..... الغَرِيمُ: قرض
دار سے تنگ دستی میں طلب کرنا۔ أَعْسَرَتِ
الْمَرْأَةُ: عورت کے چٹنے میں دشواری ہونا۔
عَاسِرَةٌ مَعَاسِرَةٌ: تنگی کا معاملہ کرنا۔

تَعَسَّرَ وَتَعَاسَرَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ: دشوار ہونا۔
بچیہ ہونا..... عَلَيْهِ الْقَوْلُ: ملتحمس ہونا۔
تَعَاسَرَ الْبَيْعَانُ: بائع مشتری کا متفق نہ ہونا۔
إِعْتَسَرَهُ: مجبور کرنا..... الكَلَامُ: قبل تیاری
کے فی البدیہہ کہنا۔

إِسْتَعَسَرَ: الْأَمْرُ: دشواری پانا..... الْأَمْرُ
عَلَيْهِ: سخت اور بچیہ ہونا۔
العُسْرُ وَالْعُسْرُ: تنگ دستی۔ سختی۔ تنگی۔
العُسْرَةُ وَالْعُسْرَى وَالْمَعْسِرَةُ وَالْمَعْسِرَةُ
: تنگی اور سختی۔

الاعْتَسِرُ: بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا۔ کہا
جاتا ہے "فَلَانٌ أَعْسَرَ نَسْرًا" فلاں دونوں
ہاتھوں سے کام کرنے والا ہے۔ "يَوْمٌ
أَعْسَرَ" یعنی سخت اور منحوس دن۔

العُسْرَى: مؤنث الاعْتَسِرُ: تنگی۔ دشواری۔
المِعْسِرُ: اپنے قرض دار پر تنگی کرنے والا۔
المَعْسُورُ: تنگ حال۔

عَسَسَ. اللَّيْلُ: رات کا گزرتا۔ رات کا
تاریک ہونا..... السَّحَابُ: بادل کا زمین
سے قریب ہونا..... الْأَمْرُ: مشیت کر دینا۔ معرہ
بنادینا..... الشَّيْءُ: حرکت دینا.....
وَتَعَسَسَ الدُّنْبُ: بھیرے کا رات میں
پھرنا۔ تَعَسَسَ الشَّيْءُ: سو گھٹنا۔

العَسَسُ: رات میں شکار ڈھونڈنے والا
بھیر یا۔
العَسَسُ: رات میں شکار ڈھونڈنے والا

بھیر یا۔

سراب۔ ہر چیز میں سے ہلکا۔

عَسَفَ (ض) عَسْفًا السُّلْطَانُ: ظلم کرنا۔
جور کرنا..... ہ: ظلم کرنا۔ خدمت لینا.....
السَّمْعُ الجَفُونُ: آنسو کا پلکوں سے بکثرت
بہنا..... الشَّيْءُ: زبردستی لے لینا۔ جی الْأَمْرُ:
بغیر سوچے سمجھے کرنا..... لِفُلَانٍ: کسی کے لئے
کام کرنا۔ الطَّرِيقُ وَعَنِ الطَّرِيقِ: راستے
سے ہٹ جانا۔

العَفَازَةُ: بغیر مقررہ راستے کے طے کرنا۔ کہا
جاتا ہے "بَاتَ يَعْصِفُ اللَّيْلَ وَاللَّيْلَ"
مقصد کی تلاش میں رات میں بے راہ چلنا۔
أَعَسَفَ: رات میں بے راہ چلنا۔ غلام سے
سخت کام لینا۔

عَسَفَ: بغیر علامت نشان کے چلنا.....
البَعِيرُ: چلنے سے تھکا دینا۔

تَعَسَفَ. فِي الْقَوْلِ: بے راہ روی کرنا۔
ایسے معنی میں حمل کرنا جس پر دلالت ظاہر نہ
ہو..... عَنِ الطَّرِيقِ: ہٹ جانا..... الْأَمْرُ:
بغیر سمجھے ہوئے اختیار کرنا..... فَلَانًا: ظلم
کرنا۔ خدمت لینا۔

إِعْتَسَفَ عَنِ الطَّرِيقِ: راستے سے ہٹ
جانا۔ الطَّرِيقُ: راستہ کو بغیر جانے پہچانے
چلنا۔ الْأَمْرُ: بغیر سمجھے ہوئے اختیار کرنا
فَلَانًا: ظلم کرنا۔ خدمت لینا۔

إِنْعَسَفَ الشَّيْءُ: مڑنا۔
العَسْفُ: ظلم۔ موت۔

العَاسِفُ: فَا۔ مِنَ الْإِبِلِ: عساف کی بیماری
والا اونٹ۔ کہا جاتا ہے "نَاقَةٌ عَاسِيفٌ" ج
عَوَاسِيفُ۔

العَاسِفُ: اونٹوں میں ایک بیماری۔ جس
میں سانس زیادہ لیتا ہے۔

العَسُوفُ وَالْعَسَافُ وَالْمِعْسَفُ: بہت
ظالم۔

العَسِيفُ: مزدور ج عَسَفًا وَعَسَفًا.
العَسِيفُ: بے جانے پہچانے راستے چلنے
والا۔ کہا جاتا ہے "أَخَذْنَا فِي مَعَايِيفٍ"

الْبَيْدِ وَمَعَامِيهَا“ یعنی جنگل کے مجھول راستوں میں چلنا شروع کر دیا۔

عَسِقُ (س) عَسَقًا وَتَعَسَقُ بِهِ: چمٹنا۔ غلیہ: طلب کرنے میں اصرار کرنا۔

العَسَقُ: تنگ خوئی۔ اول رات کی تاریکی۔ العَسِيقَةُ: رومی شراب۔

عَسْفَلُ: السَّرَابُ: سراب کا چمکنا۔ عَسْفَلَانُ: شام کے ساحل پر ایک شہر۔

الرَّاسُ: سر کا اوپر کا حصہ۔

العَسْفَلُ: سانپ کی چھتری۔ رَجُ عَسَاقِلُ.

العَسَاقِيلُ وَالْعَسَاقِيلُ: سراب۔ متفرق بادل۔ صحاح میں ہے کہ ان کا واحد نہیں بنا گیا۔

عَيْكُ (س) عَسْكَابِهِ: لازم ہونا۔ چمٹنا۔

تَعَسَكَ: الرَّجُلُ فِي مَشِيئِهِ: منک کر چلنا۔ عَسَكَرَ الْقَوْمُ: جمع ہونا۔ اللَّيْلُ: تاریکی

زیادہ ہونا۔ الشَّيْءُ: جمع کرنا۔ جمع کر وہ کو مُعَسِّكِرٌ کہتے ہیں۔

العَسْكَرُ: جمع۔ لشکر۔ عَسَاكِرُ: ہر چیز کا بہت۔ کہا جاتا ہے "أَنْجَلْتُ عَنْهُ عَسَاكِرَ الْهَمِّ"۔ ہم کی کثرت اس سے دُور ہو گئی۔

العَسْكَرَةُ: سختی خشک سالی۔

عَسَلَ (ن ض) عَسَلًا وَعَسَلَ الطَّعَامُ: کھانے میں شہد ملانا۔ عَسَلَ وَعَسَلَ

الْقَوْمُ: شہد کا کھلانا۔ شہد کا توشہ دینا۔ عَسَلَتِ النَّحْلُ: کبھیوں کا شہد بنانا۔ عَسَلَ

الشَّيْءُ: شہد جیسا ہونا۔ عَسَلَ النَّائِمُ: اوجھنا۔ عَسَلَ (ض) عَسَلًا وَعَسُولًا وَعَسَلًا مَا

الرُّمُحُ: زیادہ حرکت کرنا۔ السَّرَاةُ: جماع کرنا۔

عَسَلَ (ن) عَسَلًا وَعَسَلْنَا الْمَاءَ: ہوا کی وجہ سے لہرانا۔

إِسْتَعَسَلْتُ: شہد طلب کرنا۔ إِسْتَعَسَلْتُ النَّحْلُ: کبھیوں کا شہد بنانا۔ کہا جاتا ہے عَسَلًا

لَهُ: بمعنی تَعَسَّالَهُ یعنی اس کے لئے بلاکت ہو۔

العَسَلُ: شہد (مذکر مؤنث) رَجُ أَعْسَالٍ وَعَسَلَ وَعَسَلَ وَعَسُولٌ وَعَسَلَانُ:

تھوڑے سے کو عَسَلَةٌ: کہتے ہیں۔ العَسَلُ: کھجور کا شیرہ۔ کہا جاتا ہے "مَسَالِفُ الْفُلَانِ

مَضْرُوبٌ عَسَلِيَّةٌ" یعنی فلاں کے لئے نسب نہیں۔ "مَاتَرَكْتُ لَهُ مَضْرُوبَ عَسَلِيَّةٍ" مراد

یہ ہے کہ اس کو گالی دی یہاں تک کہ اس کے نسب کو کالعدم کر دیا۔

أَبُو عَسَلَةَ: بھیریا۔

العَسَلِيُّ: شہد کے رنگ کا۔

العَابِلُ: (ف.....) (و العَسُولُ) نیوکا جس کی ثنا و صفت اچھی طرح معلوم ہوج عَسَلُ.

العَابِلُ: شہد نکالنے والا رَجُ عَسَلُ وَعَوَابِلُ: بھیریا۔ رُمُحُ عَابِلٌ وَعَسَالٌ

وَعَسُولٌ: نرمی کی وجہ سے حرکت کرنے والا۔

العَسَالُ: بمعنی العَابِلُ. خَلِيَّةُ عَابِلَةٌ: چھتہ مع شہد کے۔

العَسَالَةُ: چھتہ۔

العَسَالَةُ: شہد کی مکھی۔ شہد کے نکالنے والے۔

العَسْبِيلُ: عطر فروش کی جھاڑو جس سے عطر جمع کرتا ہے۔ ہاتھی اور اونٹ کا عضو متاسل رَجُ

عَسَلُ. المَعْسَلَةُ وَالْمَعْسَلَةُ: شہد کا چھتہ۔

المَعْسُولُ: مَفْعٌ رَجُلٌ مَعْسُولٌ: شیریں زبان۔ خوش آواز۔ مَعْسُولُ الْمَوَاعِيذِ:

سچے وعدے۔ عَسَلِجُ: الشَّجَرُ: نرم ٹہنیاں نکالنا۔

العَسَلِجُ: نرم ٹہنیاں۔ رَجُ عَسَالِجٍ. العَسَلُوجُ: نرم ٹہتیاں۔ رَجُ عَسَالِيجٍ.

عَسَلَطُ: غیبر مر بوٹ کلام بولنا۔ كَلَامٌ مُعَسَلَطٌ: غیبر مر بوٹ گفتگو۔

العَسَلَقُ: سراب۔ بھیریا۔ شیر۔ زرشتر مرغ۔ ہر شکاری درندہ۔ بدخلصت۔ چست

چالاک۔ دراز گردن۔ لومڑی۔ رَجُ عَسَالِيقٍ.

عَسِمٌ (ض) عَسِمًا وَعَسُومًا فِي الْأَمْرِ: لالچ کرنا۔ کوشش کرنا۔ عَسِمَتْ عَيْنُهُ:

آنکھ کا بہہ پڑنا۔ آنکھ کا بند ہونا یا بقول بعض پلک کا چپک جانا۔

عَسِمٌ (س) عَسِمًا الْقَدَمُ أَوِ الْكَفُفُ: قدم یا پتھلی کا خشک ہو کر ٹیزھا ہونا۔ صفت مذکر

أَعْسَمٌ: صفت مؤنث عَسَمَاءُ. أَعْسَمٌ يَدُهُ: خشک کر دینا۔ أَعْسَمَتْ عَيْنُهُ:

آنکھ کا بہنا یا بقول بعض بند ہونا۔ اِعْتَسَمَ: کمائی کرنا فلائنا: کسی کو اس کے طمع

کی چیز دینا۔ العَسُومُ: بال بچوں کو تکلیف پہنچانے والا۔ رَجُ عَسْمٍ.

العَابِسُ: بمعنی العَسُومُ. العَسَمَةُ وَالْعَسُومُ: خشک روٹی کے ٹکڑے العَسُومُ: قلت۔

المَعْسَمُ: جائے طمع۔ کہا جاتا ہے "مَالِكٌ فِي بَيْتِي فَلَانَ مَعْسَمٌ".

عَيْسِنٌ (س) عَيْسِنًا الْكَلْفَا فِي الذَّابَةِ: گھاس کا ہضم ہونا اور جانور کا موٹا ہونا۔

عَيْسِنَتِ الذَّابَةِ: چارہ کا ہضم ہونا اور موٹا ہونا۔

تَعَسَّنَ: الشَّيْءُ: پید نشان تلاش کرنا۔ أَبَافٌ: مشابہ ہونا..... وَأَعْسَنَ الْمَكَانُ: کچھ

سبزی اگانا۔ العَيْسِنُ: چربی۔ بالوں کی لمبائی و خوبصورتی

مع سپیدی۔ العَيْسِنُ: مثل و نظیر..... وَالْعَيْسِنُ: چربی۔

العَسُونُ وَالْأَعْسَنُ: موٹا۔ رَجُ عَسْنٍ. أَعْسَانُ الشَّيْءِ: نشان۔ کہا جاتا ہے "هُوَ

عَلَى أَعْسَانٍ مِنْ أَبِيهِ" وہ اپنے باپ کے

مشابہ ہے۔ الْعَسْنَجُ: زرشتر مرغ۔

عَسَا يَعْسُو عَسَاءً وَعَسُوًا النَّبَاتُ: نباتات کا موٹا اور سخت ہونا۔ عَسَتْ يَدُهُ

ہاتھ کا کام کرنے سے سخت ہونا..... اللَّيْلُ: رات کی تاریکی کا زیادہ ہونا۔ عَسَا يَعْسُو

عَسَالِيقٍ.

عَسُوًّا وَعَسُوًّا وَعَسِيًّا وَعَسَاءً وَعَسُوَّةٌ
الشَّيْخُ: بوزھا ہونا۔

العَسُو: موص۔ موم۔

العَابِي: قا۔ تخت مزاج۔

العَسُوَّة: بڑھا پا۔

عَبِيٌّ يَعْنِي عَسِيًّا. النَّبَاتُ: نباتات کا
تخت ہونا۔

عَسِيٌّ: افعال مقاربت میں سے ہے اور جامد
ہے۔ محبوب میں اُمید کے لئے اور مکروہ میں
خوف کے لئے مستعمل ہے۔

العَيْسِيُّ وَالْعَيْسِيُّ وَالْمُعَسَاةُ بِالْأَمْرِ:
لأقن۔ مناسب۔

أَعْسِبُ بِهِ: فعل تجب ہے بمعنی اُخْلِقُ بِهِ: یعنی
کس قدر لائق ہے۔

العَابِي: قا۔ درخت خرما۔ بقول ابو عبید
درخت خرما کا گچھا۔

المُعَسَاءُ: قریب البلوغ لڑکی۔

عَشْرٌ (ن) عَشَاءُ الشَّيْءِ: طلب کرنا۔ جمع
کرنا۔ القَبِيضُ: کرتے میں بیوند لگانا

..... الْمَعْرُوفُ: تھوڑا سا دینا۔ عَشْتُ
النَّخْلَةِ: درخت خرما کی شاخوں کا کم

ہونا۔ عَشَّ الطَّائِرُ: پرندے کا گھونسلے ہی
میں رہنا۔

عَشْرٌ (ن) عَشْوَيْتَةٌ وَعَشَائَةٌ
وَعَشَائُ الْبَدَنِ: لاغر ہونا۔ صفت عَشٌّ.

عَشَّ الطَّائِرُ: پرندے کا گھونسلہ بنانا۔
عَشَّ شَبَّ النَّخْلَةِ: درخت خرما کی شاخوں کا

کم ہونا۔ عَشَّشَ الْكَلْبُ: گھاس کا خشک
ہونا۔

عَشَّشَ الْعَجْبُزُ: روٹی میں پیچھوندی لگانا اور
خشک ہونا۔

أَعَشَّ فَلَانًا عَنِ الْأَمْرِ: روکنا۔ باز رکھنا.....
الظَّنِّيُّ: ہرن کو بھٹ میں بھڑکانا..... الْبَدَنِ:

بدن کو لاغر کرنا..... السَّرْجَلُ: کم درخت والی
سرزمین میں پھینچنا۔

إِعْشَشَ: گھونسلہ بنانا..... الْبَدَنِ: بدن کو لاغر
کرنا۔

إِنْعَشَّ التَّوْبُ: کپڑے کا پوند والا ہونا۔

العَش: موص۔ عطاء، قلیل۔ سَرَجْلٌ عَشٌّ: لاغر
مرد۔

العَشُّ وَالْعُشُّ: گھونسلہ ج عَشَّاشُ
وَعَشَّشَةٌ وَأَعَشَّاشٌ وَعُشْوِيٌّ.

السَّعْثَةُ: کم شاخوں والا گھجور کا درخت۔
خراب جگہ میں آگا ہوا درخت۔ کم درخت

والی سرزمین۔
المُعَشَّشُ: مطلق۔

المُعَشَّشُ: مطلق۔ وہ جگہ جہاں پرندہ گھونسلہ
بنائے۔

عَشِبٌ (س) عَشْبًا: خشک ہونا۔
عَشِبٌ (س) عَشْبًا وَعَشْبٌ (ك)

عَشَابَةُ الْمَكَانِ: سبز گھاس والا ہونا۔ صفت
عَاشِبٌ.

عَشِبٌ (ك) عَشَابَةُ وَعُشْوِيَّةُ الرَّجُلِ:
پست قدم بد صورت ہونا۔ صفت مذكر عَشِبٌ:

صفت مؤنث عَشْبَةٌ.
أَعَشَبَ. الْقَوْمُ: سبز گھاس پر پھینچنا۔ کہا جاتا

ہے "أَعَشَبْتُ فَلَانًا" ہرے بھرے پر پھینچ
گئے تو اتر پڑے۔

أَعَشَبَ وَعَشَبَ الْمَكَانَ: سبز گھاس لگانا۔
إِعْتَشَبَ وَتَعَشَبَ: سبز گھاس چرنا۔ ہونا

ہونا۔
إِعْشَوْسَبٌ: سبز گھاس پر پھینچنا..... الْمَكَانَ:

بہت سبز گھاس والا ہونا۔
العَشْبُ: سبز گھاس ج عَشَابٌ وواحِد

عُشْبَةٌ.
العَشْبِيَّةُ: بڑھا پنے کی وجہ سے خمیدہ کمر مرد یا

عورت۔
العَشَابِيَّةُ: سبز گھاس کی کھرت۔

العَشْبُ وَالْعَشْبِيُّ وَالْمُعَشَّبُ
وَالْمُعَشَّابُ: سبز گھاس والی (جگہ) بہت

سبز گھاس والی (جگہ) أَرْضٌ عَاشِبِيَّةٌ
وَعَشْبِيَّةٌ وَعَشْبِيَّةٌ وَمُعَشَّبَةٌ وَمُعَشَّابٌ:

بہت سبز گھاس والی زمین۔
التَّعَاشِبُ: سبز گھاس کے متفرق قطعے۔

العَشَابُ: سبز گھاس والا۔ سَبْرِيٌّ وَالِا۔

عَشْرٌ (ض) عَشْرًا: دس میں سے ایک
لینا۔ نو پر ایک زائد کرنا..... الْقَوْمُ: قوم میں

دسواں ہونا..... النَّاقَةُ: اونٹنی کا دس مہینے کی
حاملہ ہونا۔

عَشْرٌ (ن) عَشْرًا وَعَشْوَرًا وَعَشْرٌ
الْمَالِ: دسواں حصہ لینا..... الْقَوْمُ: قوم کے

مال کا دسواں حصہ لینا۔ دسواں ہونا۔ عَشْرٌ
الْحِمَارُ: گدھے کا دس مرتبہ بٹکانا۔

عَشْرَتِ النَّاقَةِ: اونٹنی کا دس مہینے کی حاملہ
ہونا۔

أَعَشَرَ الْعَدُوَّ: دس کر دینا..... الْقَوْمُ: دس
ہونا۔ أَعَشَرَتِ النَّاقَةُ: اونٹنی کا دس مہینے کی

گا بھجن ہونا۔
عَاشِرَةٌ مُعَاشِرَةٌ: یا ہم مل جل کے رہنا۔

أَعْتَشَرَ وَتَعَاشَرَ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کے
ساتھ رہنا۔

العِشْرُ: دسواں حصہ۔ اونٹ کا دسویں یا نویں
دن گھاٹ پر چانا۔ ج أَعَشَارُ.

العِشْرُ: دسواں حصہ ج عَشْوَرٌ وَأَعَشَارُ
الأَعَشَارُ: پرندے کے اگلے بڑے پتے۔

العِشْرُ: ہر مہینے کی دسویں گیارہویں
بار ہویں رات۔

العِشْرَةُ: دس اور یہ مذکر کے لئے ہے۔ کہا
جاتا ہے "عِشْرَةٌ وَجَالٌ" اور مؤنث کے

لئے "عِشْرٌ نِسَاءً" اور جب دوسرے عدد
کے ساتھ ملا یا جاتا ہے تو گیارہ اور بارہ میں

موافق قیاس کے مذکر کے لئے دونوں جزء
مذکر جیسے "أَخَذَ عِشْرَ رَجُلًا" اور مؤنث کے

لئے دونوں جزء مؤنث۔ جیسے أَخَذَتْ
عِشْرَةَ امْرَأَةٍ..... اور اس کے بعد انیس تک

مذکر کی صورت میں پہلا جزء مؤنث اور دوسرا
جزء مذکر جیسے خَمْسَةَ عَشْرٍ رَجُلًا اور

مؤنث کی حالت میں پہلا جزء مذکر اور دوسرا
جزء مؤنث جیسے خَمْسُ عَشْرَةَ امْرَأَةً ج

عَشْرَاتٍ.
العِشْرُونَ: بیس (مذکر و مؤنث دونوں کے

(لے۔)

العشيرة: محبت۔ مخالفت۔

العاشير: فاء۔ دسواں۔ دسویں دن گھاٹ پر جانے والا اونٹ بج عشیر: مونت عاشیرہ بج عواشیر۔ العواشیر: پرندے کے اگلے بڑے پر۔

العشورزی والعاشور والعاشوراء والعاشورای: محرم کی دسویں تاریخ۔

العشار: دسواں حصہ وصول کرنے والا۔

العشراء: من النوق: آٹھ یا دس مینے کی گاجا بہن اونٹنی بج عشار وعشراوات یا وہ اونٹنی جو بچہ جن پہلی ہو۔

العشراء والفویشراء: گلی ڈنڈا۔ (بچوں کا کھیل) کہا جاتا ہے "جاءوا وعشرازا ومعشر" یعنی دس دس آئے (یہ دونوں گلے وصفت اور عدل کی وجہ سے غیر منصرف ہیں۔)

قوب عشاری: دس گز لہا۔ غلام عشاری: دس سال کا۔ مونت عشاریہ۔

عشارة: دسواں حصہ۔

الاعشاری: اعشار: جمع عشر: کی طرف منسوب۔

العشیر: قبیلہ۔ قریب۔ دوست۔ زوج۔ زوجہ بج عشیراء۔

العشیر: دسواں حصہ۔ بج اغشیراء۔

العشیرة: قبیلہ۔ عشیرة الرجل: برادران باپ کی جانب سے قریبی لوگ۔ بج عشائر۔ وعشیرات۔

الاعشیر: بے وقوف۔

المعشر: جماعت۔ آدمی کے اہل۔ جن۔ انسان بج معاشیر۔

المعشار: دسواں حصہ۔ ناقہ معشار: بہت دودھ والی اونٹنی۔

العشری: (ع ج) وہ عد جو جزاء صحیح یا صفر سے بنایا گیا ہو۔ جز عشری: ۱۰۰/۲۰۳۱۔ الکنسر العشری: اس کی صورت صحیح عدد جس کا خروج ۱۰ یا ۱۰ کے قوی میں سے کوئی ہو

مثلاً: (۱۰/۱۰۰۰۰۰/۱) اس کو عشاری نظام سے لکھنا بھی ممکن ہے۔

العشیریة: ایک درخت جس کے پھول کے دس اجزاء ہوتے ہیں شمالی امریکہ میں ہوتا ہے۔

العشر واحد عشرة: ایک درخت کی قسم جس سے گوند کثرت سے پیدا ہوتی ہے۔

العشارب والعشرب: شیر زجل عشارب: دلیر مرد۔

عشر (ض) عشرانا: کٹی ہوئی ٹانگ والے کی طرح چلنا۔۔۔۔۔۔ علی عصاه: لاشی پر ٹیک لگانا۔

العشور: دشوار گزار راستہ یا زمین بج عشاور (..... والعشور) مضبوط۔ قوی۔ موٹا۔

عشقہ (س) عشقا وعشقا ومعشقا: بہت محبت کرنا۔ محبت میں حد سے بڑھ جانا۔ صفت مذکر عاشیق: بج عشاق وعاشقون: صفت مؤنث عاشیقة وعاشیق بج عواشیق عشیق بالشی: چمٹنا۔

تعشیق: جھکت عاشق بننا۔۔۔۔۔۔ ہ: بہت محبت کرنا۔

العشوق: محبت کی زیادتی۔ پارسائی اور فسق دونوں طرح سے ہوتا ہے۔

العشقة: عشق۔ بیجان۔ بیولو۔ بج عشق۔

العشیق: عاشق۔ معشوق۔ المعشیق والعشوق: پھولوں کے پودوں کی دیکھ بھال کرنے والا بج عشق۔

العشاق والعشیق: بہت زیادہ عشق والا۔ عشیم (س) عشما وعشوما وتعشم الشی: خشک ہونا۔

العشیم: لالچ۔ خبز عشیم: سوکھی یا خراب روٹی۔

العشمة: لالچ۔ خشک روٹی۔ لاغری کی وجہ سے خشک۔ پیر فرتوت۔ (مذکر مونت) کہا جاتا ہے "شیخ عشمہ وعجوز عشمہ"۔ خبز عشم: خشک یا خراب شدہ روٹی۔

الاعشم: دو مخلوط رنگ۔ خشک درخت۔ عمر رسیدہ بوڑھا۔ مونت عشماء۔

عشَن (ن) عشنا وعشِن وعشَن واعشَن: رائے لگانا۔ تخمینہ کرنا۔ اعشَن فلانا: ناحق حملہ کر دینا۔

العشان والعشانة: گرمی ہوئی رودی کھجوریں۔ العشانة: کھجور کی شاخ کی جڑ۔

عشایعشو عشوا: رتو نوالے کی طرح کام کرنا۔۔۔۔۔۔ الابل: اونٹوں کو رات میں چرانا۔

الرجل: رات میں قصد کرنا۔۔۔۔۔۔ والیہ: قصد کرنا اور بخشش طلب کرنا۔۔۔۔۔۔ عنہ:

اعراض کرنا اور دوسرے کی طرف مائل ہونا (..... عشوا وعشیا) الرجل: رات کا کھانا کھلانا۔۔۔۔۔۔ عشوا وعشوا الناز والی النار: رات کو آگ کی طرف راستہ پانے یا مہمانی کی امید میں جانا) عشوا وعشی یعشی عشام: نگاہ کزور ہونا۔

رتو ندی ہونا۔ صفت عش وعشی۔ عشی العشاء: رات کا کھانا کھانا۔ صفت عشیان۔ عشی علیہ: ظلم کرنا۔ عشیت الابل: اونٹ کارات میں چرنا۔ صفت عاشیة بج عواش۔

عشی تعشیة: الرجل: شام کا کھانا کھلانا۔۔۔۔۔۔ الطیر: آگ روشن کر کے اندھا بنا کر شکار کرنا۔۔۔۔۔۔ عین الشی: نرمی برتنا۔

ملاطفت کرنا۔۔۔۔۔۔ الابل: اونٹ کورات میں چرانا۔

اعشی اعشاء الرجل: دینا۔ رات کا کھانا کھانا۔۔۔۔۔۔ اللہ الرجل: رتو ندی میں جتا کر دینا۔

تعشی: رات کا کھانا کھانا۔

تعاشی: رتو ندی والا ظاہر کرنا۔

عنه: جاہل بننا۔

اعشعی اعشیا: عشاء کے وقت چلنا۔۔۔۔۔۔ النار: رات میں دیکھنا اور قصد کرنا۔

استعشعی استعشاء نازا: آگ کی روشنی میں راستہ پانا۔۔۔۔۔۔ الرجل: متحیر پانا۔

العشاء: شام کا کھانا۔ ج اغشيئة.

العشا والعشاوة: نگاہ کی کمزوری۔
رتو ندی۔

العشي: شام کا کھانا۔

العشاء والعشي: رات کی ابتدائی تاریکی اور بقول بعض مغرب سے عشاء تک کی تاریکی یا دن کا آخری حصہ۔

العشاء ان: مغرب اور عشاء۔ بعبور عشي: رات کو دیر تک چرنے والا۔

العشيئة: شام ج عشي وعشايا وعشيئات: اور نسبت کے لئے عشيوي. العشيئة: بادل۔

العشوة: تاریکی۔ رات کے اول ربع کی تاریکی۔

العشوة والعشوة: آگ کا شعلہ جو رات کو دور سے دکھائی دے۔

العشوة العشوة والعشوة: امر مشتبہ کو کرنا۔ کہا جاتا ہے "أوطأه عشوة" یعنی اس نے اسے امر مشتبہ میں پھنسا دیا اور یہ اس وقت کہ جب کوئی ایسی خبر دے کہ جس کی وجہ سے حیرت و مصیبت میں پڑ جائے۔

العشواء: مؤنث الاعشي: اونٹنی جس کو سامنے نظر نہ آئے۔ کہا جاتا ہے "هو يخطب خطب عشواء" یعنی وہ امور میں بغیر کسی بصیرت کے تصرف کرتا ہے۔ "هو أخطب من عشواء" و "إنهم لفي عشواء من أمرهم" یعنی حیرانی و سرگردانی میں ہیں۔ و "زكب العشواء" یعنی اپنے کام کو بغیر ہدایت کے اختیار کیا۔ العشواء: تاریکی کھجور۔ کھجور کا درخت۔

عص (س) عصا وعصصا: تخت ہوتا۔
عصص علي غريمه: فرض دار سے اصرار کرنا۔
العص: اصل۔ کہا جاتا ہے "هو كوريم العص"۔
العصص والعصص: دم کی بڑی۔

عصب (ض) عصبا الشئ: لپیٹنا۔

عصبا الشئ: لپیٹنا۔

عصبا الشئ: لپیٹنا۔

عصبا الشئ: لپیٹنا۔

موثنا۔ بٹنا۔ باندھنا۔ القطن: روئی

کاتا۔ الرقيق بالقلم: تھوک کا منہ پر خشک ہونا۔
الساقفة: دوہنے کے لئے اونٹنی کی رانیں

باندھنا۔ الرجل بينة: اقامت کرنا۔
العبار زاسة: سر پر غبار لگ جانا۔ القوم

بہ: اجتماع کرنا۔ احاطہ کرنا۔ عصبا (وعصوبا) الانسان: دانتوں کا میلا ہونا۔
الاقسق: کنارہ آسمان کا سرخ ہونا۔

عصبا وعصبا (الشئ): قبضہ کرنا۔
عصب (س) عصبا اللحم: گوشت کا

زیادہ پٹھے والا ہونا۔ صفت۔ عصب۔ القوم بہ: اجتماع کرنا۔ احاطہ کرنا۔

عصبا: بھوکا رکھنا۔ ہلاک کرنا۔ پٹی باندھنا۔ عصب فلانا: سردار بنانا۔

أعصبت الابل: اونٹوں کا تیز چلنا۔
تعصب: پٹی باندھنا۔ عصبت سے کام لینا۔

سردار ہونا۔ له ومعق: مائل ہونا اور مدد کی کوشش کرنا۔
عليه: مقابلہ کرنا اور عصبيت دکھلانا۔
فني دينه ومدبه: دین و مذہب میں غیور ہونا اور سخت حفاظت کرنا۔

بالشئ: راضی ہونا۔
أعصبت القوم: گروہ بٹنا۔ الملک: بادشاہ کا تاج پہننا۔
الساج علي زابيه: تاج کا سر پر فٹ ہونا۔ بالشئ: قناعت کرنا اور راضی ہونا۔

أعصبت الشئ: سخت ہونا۔
أعصوب الشئ: سخت ہونا۔ القوم: مجتمع ہونا اور گروہ گروہ ہونا۔

العصب: عمامہ۔ پگڑی۔ ایک قسم کی چادر (.....) والعصب عشق بیچیاں۔

العصب: مص۔ پشما۔ قوم کے چیدہ لوگ۔ عشق بیچیاں ج أعصاب۔

العصبة: عصب: کا واحد۔ باپ کی جانب سے رشتہ دار۔ ج عصبات۔
العصبة: پٹی باندھنے کی بجیت۔

العصبة: من الرجال والنخل والطيور: مردوں یا گھوڑوں یا پرندوں کی جماعت۔ ج

عصب: عمامہ۔ پگڑی۔ ایک قسم کی چادر (.....) والعصب عشق بیچیاں۔

العصب: مص۔ پشما۔ قوم کے چیدہ لوگ۔ عشق بیچیاں ج أعصاب۔

العصبة: عصب: کا واحد۔ باپ کی جانب سے رشتہ دار۔ ج عصبات۔
العصبة: پٹی باندھنے کی بجیت۔

العصبة: من الرجال والنخل والطيور: مردوں یا گھوڑوں یا پرندوں کی جماعت۔ ج

عصب: عمامہ۔ پگڑی۔ ایک قسم کی چادر (.....) والعصب عشق بیچیاں۔

عصب.

العصاب: جس سے باندھا جائے۔
العصابة: جماعت مردوں گھوڑوں پرندوں کی پگڑی۔ عمامہ۔ پٹی۔ ج

عصائب.
العاصب: قال رجل عاصبت: وہ شخص جس کے منہ پر تھوک خشک ہو جائے۔

العصيب: پھینچا ہوا آنتوں کے بندھا ہوا اور بھنا ہوا ج غضب وأغصبة. يوم عصيب: سخت گرم۔

أعصبت: مص۔ دلیل ظاہر ہونے کے بعد بھی حق کو نہ قبول کرنا۔ ج تعصبات۔
العصبي: قوم کی عصبيت کی بنا پر ظلم میں مدد کرنے والا۔

العصيبة: دھرا بندی۔
المعصب: منع۔ سردار۔ تاج پہننے والا۔ فقیر۔ بھوکا۔

المعصوب: منع۔ باریک توار۔ کہا جاتا ہے "رجل معصوب الخلق" یعنی مضبوط بناوٹ کا پڑ گوشت۔

العصيب: سخت گرم دن یا مطلقاً سخت۔
عصدا (ض) عصدا وأعصدا الشئ: موثنا۔ گروہ دینا۔ کہا جاتا ہے "عصدا علي الأمل" یعنی اس کو کام پر مجبور کیا۔

عصودا: الرجل: مرنا۔
العصيد: گروہ لگایا ہوا۔ موثا ہوا۔
العصيدة: ایک قسم کا کھانا جو گھی آنا ملا کر پکایا جاتا ہے۔

عصرا (ض) عصرا. العنب او القوب: انگور یا کپڑے کو نچوڑنا۔ الذمل: بھوڑے کو نچوڑ کر پیپ نکالنا۔ الرخص القوس: سینہ لانا۔ الشئ عنه: منع کرنا۔ فلانا: قید کرنا۔ عطيد: بنا۔

عصرا الشئ: بار بار نچوڑنا۔ الزرع: کھیتی میں خوشے نکالنا۔ عصرت المرأة: عورت کا بالغ ہونا۔ جفص آنا۔
أعصر: عصر کے وقت میں داخل ہونا۔

عصرا (ض) عصرا. العنب او القوب: انگور یا کپڑے کو نچوڑنا۔ الذمل: بھوڑے کو نچوڑ کر پیپ نکالنا۔ الرخص القوس: سینہ لانا۔ الشئ عنه: منع کرنا۔ فلانا: قید کرنا۔ عطيد: بنا۔

عصرا الشئ: بار بار نچوڑنا۔ الزرع: کھیتی میں خوشے نکالنا۔ عصرت المرأة: عورت کا بالغ ہونا۔ جفص آنا۔
أعصر: عصر کے وقت میں داخل ہونا۔

عصرا (ض) عصرا. العنب او القوب: انگور یا کپڑے کو نچوڑنا۔ الذمل: بھوڑے کو نچوڑ کر پیپ نکالنا۔ الرخص القوس: سینہ لانا۔ الشئ عنه: منع کرنا۔ فلانا: قید کرنا۔ عطيد: بنا۔

عصرا الشئ: بار بار نچوڑنا۔ الزرع: کھیتی میں خوشے نکالنا۔ عصرت المرأة: عورت کا بالغ ہونا۔ جفص آنا۔
أعصر: عصر کے وقت میں داخل ہونا۔

عصرا (ض) عصرا. العنب او القوب: انگور یا کپڑے کو نچوڑنا۔ الذمل: بھوڑے کو نچوڑ کر پیپ نکالنا۔ الرخص القوس: سینہ لانا۔ الشئ عنه: منع کرنا۔ فلانا: قید کرنا۔ عطيد: بنا۔

عصرا الشئ: بار بار نچوڑنا۔ الزرع: کھیتی میں خوشے نکالنا۔ عصرت المرأة: عورت کا بالغ ہونا۔ جفص آنا۔
أعصر: عصر کے وقت میں داخل ہونا۔

عصرا (ض) عصرا. العنب او القوب: انگور یا کپڑے کو نچوڑنا۔ الذمل: بھوڑے کو نچوڑ کر پیپ نکالنا۔ الرخص القوس: سینہ لانا۔ الشئ عنه: منع کرنا۔ فلانا: قید کرنا۔ عطيد: بنا۔

عصرا الشئ: بار بار نچوڑنا۔ الزرع: کھیتی میں خوشے نکالنا۔ عصرت المرأة: عورت کا بالغ ہونا۔ جفص آنا۔
أعصر: عصر کے وقت میں داخل ہونا۔

عصرا (ض) عصرا. العنب او القوب: انگور یا کپڑے کو نچوڑنا۔ الذمل: بھوڑے کو نچوڑ کر پیپ نکالنا۔ الرخص القوس: سینہ لانا۔ الشئ عنه: منع کرنا۔ فلانا: قید کرنا۔ عطيد: بنا۔

أَعْصَرَتِ الْمَرْأَةُ: عورت کا بالغ ہونا۔
 حائضہ ہونا۔ صفت مُعْصِرٍ: رج معاصر
 ومُعَاصِرٍ۔
 الرِّيحُ: ہوا کا بگولہ لانا۔
 أَغْصَرَ الْقَوْمُ: بارش کیا جانا۔
 غَاصِرَةٌ مُعَاصِرَةٌ: ایک زمانہ میں ہونا۔
 تَعَصَّرَ: نچوڑا جانا..... بہ: پناہ لینا۔
 اِغْتَصَرَ الْعَنْبَ او الثُّوبَ وَنَحْوَهُمَا: انگور
 یا کپڑا وغیرہ نچوڑنا..... العَصِيرُ: شراب بنانا
 العَطِيَّةُ: عطیہ واپس لینا..... مِنْ فُلَانٍ
 مَالًا: تاوان میں یا کسی دوسرے طریقہ سے
 مال لینا..... مِنْ الشَّيْءِ: لینا..... بِفُلَانٍ: پناہ
 لینا..... عَلَيْهِ: بھل کرنا۔ کہا جاتا ہے
 "اِغْتَصَرَ بِالْمَاءِ مَا غَصَّ بِهِ مِنَ الطَّعَامِ"
 کھانے کو طلق سے پیچھے اتارنے کے لئے
 تھوڑا پانی پیا۔
 اِنْعَصَرَ: نچوڑنا..... الْعَنْبَ وَنَحْوَهُ: شیرہ نکل
 جانا۔
 العَاصِرُ: قانح غصرة وعاصِرُونَ: مونت
 غاصرة رج عواصر وعاصرات. زَجَلٌ
 عَاصِرٌ: بے برکت۔ بھیل۔
 العَصْرُ: دن۔ رات۔ دن کا آخری حصہ۔
 آفتاب کے سرخ ہونے تک۔ صبح۔ قبیلہ۔
 گروہ۔ عطیہ۔ اَغْصَرَ وَغُصِّرُ.
 العَصْرَانِ: صبح شام۔ دن۔ رات۔ کہا جاتا
 ہے "جَاءَ نَبِيٌّ عَصْرًا" وہ میرے پاس دیر
 میں آیا۔
 العَصْرُ والعَصْرُ والعَصْرُ: زمانہ
 غُصُورٌ وَأَغْصَرَ وَغُصِّرُ وَأَغْصَارٌ اور
 أَعْصَارٌ کی جمع اَعَاصِرُ.
 العَصْرُ والعَصْرُ والعَصْرَةُ والمُعْصِرُ:
 جائے پناہ۔
 العَصْرُ: عمر۔ سکون الساد میں ایک لخت
 ہے بمعنی زمانہ۔ غبار۔ خوشبو کی بھڑک۔
 العَصْرَةُ: خوشبو کی بھڑک عاصر کی جمع۔
 غبار۔ بگولہ۔
 العَصِيرُ والعَصِيرَةُ والعَصَارُ: رس۔ نچوڑ۔

ہونا۔ اَغْصَفَتِ الرِّيحُ: ہوا کا تیز چلنا۔
 صفت مُعْصِفَةٌ وَمُعْصِفٌ: رج معاصف
 ومُعَاصِفٌ..... الرِّجْلُ: ہلاک ہونا۔
 راستے سے ہٹ جانا۔ اَغْصَفَتِ الْحَرْبُ
 بِيَهُمَ: تباہ ویراں کر دینا۔
 اِسْتَعْصَفَ الزَّرْعُ: تناور ہونا۔
 العَصْفُ: مصل۔ کھیت کے پتے۔ عَصْفُ
 اليَسَنِ: گھاس کے ٹکڑے۔ عَصْفُ الاثْمَدِ
 وَغَيْرِهِ: اشم وغیرہ کا غبار۔
 العَصْفَةُ: عَصْفُ: کا اسم مرہ۔ شراب کی
 بُو۔ کھیتی کے ڈھل کے پتے۔
 اَلْعَصْفِيَّةُ: سرو کی مانند ایک درخت تیزی
 سے بڑھنے والا خوبصورتی کے لئے بویا جاتا
 ہے۔
 العَاصِفُ: قانح غاصف: نشاندہ سے
 تیز حاتیر۔ يَوْمٌ عَاصِفٌ: تیز ہوا کا دن۔
 العَاصِفَةُ: مونت غاصف رج عاصفات
 وَعَوَاصِفُ.
 العَصُوفُ: تیز ہوا۔ رج عُصْفُ.
 العَصِيفُ: تیز ہوا۔
 العَصِيفَةُ: پتے کہ جن کے درمیان میں خوش
 ہو۔
 العَصَافَةُ: تنکے جو خوشے سے گریں۔ کوڑا
 کرکٹ جس کو ہوا اڑا کر لائے۔
 عَصْفَرُ الثُّوبِ: کپڑے کو زرد رنگ سے
 رنگنا۔
 تَعَصَّفَرُ الثُّوبُ: زرد رنگ سے رنگا ہوا
 ہونا۔ تَعَصَّفَرَتِ الْعُنُقُ: گردن تیزھی ہونا۔
 العَصْفُورُ: چڑیا۔ کبوتر سے ہر چھوٹا پرندہ
 عَصَافِيرُ: مونت عُصْفُورَةٌ. العَصْفُورُ:
 پیشانی۔ پیشانی کے بال کے نکلنے کی جگہ کی
 جڑ۔ لکڑی جس سے پالان کے سرے
 باندھے جاتے ہیں۔ گھوڑے کی پیشانی کی
 ہڈی اٹھی ہوئی اور وہ دائیں بائیں دو ہوتی
 ہیں۔ کتاب۔ کشتی کی میخ۔ سردار۔ کہا جاتا
 ہے "نَفَقَتْ او صَاحَتْ عَصَافِيرُ بَطْنِهِ" یعنی

العَصِيرُ: نچوڑا ہوا۔
 العِصَارُ: سخت غبار۔ وقت۔
 العِصَارَةُ: رس۔ نچوڑ۔ نچوڑنے کے بعد
 پھوس۔ کہا جاتا ہے "زَجَلٌ كَرِيمٌ
 العِصَارَةُ" یعنی سوال کے وقت جو ادب کی۔
 الاغصار: بگولہ رج اَعَاصِرُ وَأَعَاصِيرُ:
 کہتے ہیں "وَعُدَّةُ اِغْصَارٍ لَيْسَ بَعْدَهُ
 اِغْصَارٌ" یعنی اس کے وعدہ کے لئے وفا
 نہیں۔ اس قول میں پہلا اعصار: بمعنی بگولہ
 اور دوسرا اعصار مصدر ہے۔ اَعْصَرَ الْقَوْمُ:
 کا بمعنی بارش ہونا۔
 المَعْصِرَةُ والمُعْصِرُ: نچوڑنے کی جگہ۔ کہا
 جاتا ہے "هُوَ كَرِيمٌ المَعْصِرُ" یعنی سوال
 کے وقت سچی ہے۔
 المِعْصِرُ والمِعْصِرَةُ: انگور وغیرہ نچوڑنے کا
 آلہ۔
 اَلْعَصْرِيَّةُ: نماز عصر کے بعد اجتماع برائے
 ملاقات تسلی اور وقت گزارنے کے لئے۔
 المِعْصَارُ: وہ چیز جس میں کچھ نچوڑیں۔
 المِعْصِرَاتُ: بادل۔
 العُصْعُصُ والعُصْعُصُ: دُم کی ہڈی۔ رج
 عُصَاعِصُ. والعُصْعُصُ: مرد کم خیر دشوار
 خو۔ مضبوط توتا۔
 العُصْعُوصُ: دُم کی ہڈی۔ رج عُصَا
 عِصْصُ.
 عَصَفْتُ (ض) عَصْفًا وَعُصُوفًا الرِّيحُ:
 ہوا کا تیز چلنا۔ صفت عَاصِفَةٌ وَعَاصِفٌ
 النَّافَةُ بِرَأْسِهَا: اونٹنی کا تیز لے جانا.....
 الرَّجْلُ: دوڑنا۔ عَصَفَ الشَّيْءُ: ناکل ہونا۔
 کہا جاتا ہے "عَصَفَتِ الْحَرْبُ بِالْقَوْمِ"
 جنگ نے قوم کو تباہ ویراں کر دیا۔ "عَصَفَ
 الدَّهْرُ بِيَهُمَ" زمانے نے ان کو ہلاک کر دیا
 (.....) وَعَصَفَ عَيْسَالُهُ: بال بچوں کے
 لئے کمانا۔
 عَصَفَ (ن) عَصْفًا. الزَّرْعُ: کھیتی تیار
 ہونے سے پہلے کا ٹٹا۔
 اَغْصَفَ الزَّرْعُ: کھیتی کا کاٹنے کے لائق

بھوکا ہوا۔

العُصْفُورَةُ: گل خیری کا زرد پھول۔

العُصْفُوقُ: زندی۔ جِ عَصَاقِیل۔
العصاقیل: بگولہ۔عَصِلَ (س) عَصَلًا: الشیءُ یَجْتَنُ کے ساتھ
ٹیز ہا ہوتا۔ صفت عَصِلَ وَاغْضَلَ: مَوْنُث
عَصِلَةٌ وَعَصَلَاءُ جِ عِضَالٍ وَعِضَالٌ وَعِضْلٌ (.....)
وَاغْضَلَ خَت ہوتا۔عَصَلَ (ن) عَصَلًا الْغُودُ: بگڑی کو ٹیز
کرنا۔

عَصَلَ السَّهْمُ: تیر کا ٹیز ہا ہونا۔ دیر کرنا۔

العِضْلُ وَالْعِضْلُ: آنت جِ اَعْضَالٍ۔

المِعْضَلُ: قرض دار پر سختی کرنے والا۔

المِعْضَالُ وَالْمِعْضِيلُ: ٹیزھے سر کی لاٹھی
اور جس کو عام لوگ "مُعْقِلَةٌ" یا "تہا کھور"
کہتے ہیں۔ ڈنڈا۔ جِ مَعَاصِلِ۔عَضَلَبَ: سخت غضبناک ہونا۔ سخت پٹھے والا
ہونا۔

العَضَلَبُ وَالْعَضَلَبُ وَالْفَضْلِيُّ

وَالْعَضَلُوبُ: بڑے ڈیل ڈول کا مضبوط
مرد۔

عَضَمَ (ض) عَضَمًا الزَّجْلُ: کماٹی کرنا۔

الشیءُ: روک لینا..... اللہ فَلَائِمًا مِنْ

الْمَكْرُوهِ: محفوظ رکھنا۔ بچانا۔ عَضَمَ

الْقِرْبَةَ: مشک کوری سے باندھنا..... اِلَى

فَلَانٍ: پناہ لینا۔

عَضَمَ (س) عَضَمًا الظَّنِّيَّ: سفید ناگوں

والا ہونا۔

أَعَضَمَ بِهِ: پکڑنا اور لازم ہونا۔

بِالْفَرَسِ: ایال پکڑنا..... مِنْ الشَّرِّ: باز رہنا

..... الْقِرْبَةَ: رسی سے باندھنا۔

إِعْتَصَمَ بِهِ: ہاتھ سے پکڑنا..... بِصَاحِبِهِ:

لازم ہونا..... بِالنَّبِيِّ: اللہ کی مہربانی سے گناہ

سے باز رہنا..... مِنْ الشَّرِّ وَالْمَكْرُوهِ: پناہ

لینا اور باز رہنا۔

إِنْعَصَمَ: محفوظ ہونا۔ کہا جاتا ہے "عَضَمْتُهُ

فَأَنعَصَمَ" میں نے اس کی مخالفت کی اور وہ

محمفوظ ہو گیا۔

إِسْتَعَصَمَ بِهِ: مضبوط پکڑنا اور لازم ہونا۔

پناہ لینا اور باز رہنا۔ بچانے والی چیز کا قصد
کرنا۔العُضْمُ وَالْعُضْمُ: ہر چیز کا بقیہ۔ خضاب
وغیرہ کا اثر۔العِصَامُ: سرمہ۔ دُم کا باریک حصہ۔ مِنْ
الْقِرْبَةِ: مشک باندھنے کی رسی۔مِنْ الوِعَاءِ: دست۔ عہد اور یہ باب مجاز سے
ہے جِ اَعْصَمَةَ وَعَضَمَ وَعِصَامٍ۔

العِصَامِيُّ: نعمان بن منذر بادشاہ جرہ کے

حاجب عصام کی جانب نسبت۔ ذاتی

شرافت رکھنے والا اور اسی سے نسل ہے "مُحَنُّ

عِصَامِيًّا لَا عِظَامِيًّا" یعنی عصام کی طرح

ذاتی شرافت پیدا کرو آباؤ اجداد جو مردہ ہو

چکے ہیں ان کی ہڈیوں پر مت فخر کرو۔

العِضْمَةُ: بچاؤ۔ گناہوں سے بچنے کا ملکہ۔

العِضْمَةُ: گلوبند۔ پند جِ عِصْمٍ وَعِصْمٍ

وَعِصْمَةٌ: جِ اَعْصَامٍ۔

العِصْمَةُ: گلوبند۔ پند۔

الْاَعْصَمُ: گلے ایک یا دونوں سفید پاؤں

والا جانور۔ مَوْنُثُ عِصْمَاءَ جِ عِصْمٍ۔

العِصْمِيُّ: پسینہ۔ ہر چیز کا بقیہ۔ خضاب وغیرہ

کا اثر۔

العِضُومُ وَالْعِضُومُ: بہت کھانے والا

(مذکر مَوْنُث)

الْقِاصِمَةُ: مدینہ منورہ کا لقب۔

دار السلطنت۔ جِ عِصَامِ۔

المِعْصَمُ: کلائی جِ مَعَاصِمٍ۔

المُعْتَصَمُ: پناہ لینے کی جگہ۔

عِضًا يَعْضُو عِضُومًا: الزَّجْلُ: لاٹھی سے

مارنا..... الْجُرْحُ: زخم کو باندھنا..... الْقَوْمُ:

شکل یا رائی پر جمع کرنا۔

عِصِي يَعْصِي عِضًا: لاٹھی لینا.....

وَاعْضَى بِالسِّيفِ: تلوار مارنا۔ وَاعْضَى

الشیءُ: کسی چیز کو لاٹھی بنا نا۔ اِعْطَصَى عَلَيْهِ:

ٹیک لگانا۔

عَصَى تَعْصِيَةً فَلَانًا الْعِصَا: لاٹھی دینا۔

أَعْصَى اِعْضَاءً. الْكِرْمُ: شائیں لگانا اور
پھل نہ آنا۔عِصَاهُ مَعْصَاةٌ فَعَصَاهُ: لاٹھی سے مار پیٹ
کرنا اور غالب آنا۔

العِصَا: لاٹھی۔ سہارے کی چیز (مَوْنُث) جِ

عِصِي وَعِصِي وَعِصِي وَأَعْصَى وَأَعْصَاءُ اور شئی

عِصْوَانُ الْعِصَاءِ: اجتماع۔ جماعت۔ پندلی

کی ہڈی۔ زبان۔ کہا جاتا ہے "شَقَّ الْعِصَا"

جماعت کی مخالفت کی۔ "أَنْشَقَّتْ عِصَا

الْقَوْمِ" آپس میں اختلاف پڑ گیا۔ "فَرَعَّ لَهُ

العِصَا" متنبہ کیا۔ "فَشَرَّ لَهُ الْعِصَا" عندیہ

ظاہر کر دیا۔ "فَرَعَهُ بَعْضُ الْمَلَائِمَةِ" حد سے

زیادہ ملامت کی۔ "أَلْقَى الْمُسَافِرُ الْعِصَا"

مسافر اپنی جگہ پر پہنچ گیا۔ أَلْقَى عِصَا

التَّوْحَالِ: یعنی اس نے اقامت کی۔ "النَّاسُ

عَيْبُ الْعِصَا" یعنی جو تکلیف پہنچاتا ہے لوگ

اس سے ڈرتے ہیں۔

العِصِيَّةُ: عصا کی تعمیر۔ چھوٹا ڈنڈا۔

عِصِي يَعْصِي عِصِيًا وَمَعْصِيَّةٌ سَيِّدُهُ:

نافرمانی کرنا۔ مخالفت کرنا۔ دشمنی کرنا۔

صفت عِصَا جِ عِصَاةٌ وَعِصَاوُنٌ.....

الطَّائِرُ: پرندہ کا اڑنا..... الْبَعْرُوقُ: رگ سے

خون بند نہ ہونا۔

عِصَاةٌ مَعْصَاةٌ وَتَعْصَى عَلَيْهِ تَعْصِيًا:

نافرمانی کرنا۔ تَعْصَى الْأَمْرُ: دشوار ہونا۔

إِعْتَصَمْتُ اِعْطِصَاءً. النَّوَاةُ: گھسیلا کا سخت

ہونا۔

إِسْتَعَصَى. سَيِّدُهُ: مالک کی نافرمانی کرنا

..... الشیءُ عَلَيْهِ: دشوار ہونا سخت ہونا۔

العِصِي: نافرمان۔ گنہگار جِ عِصِيُونٌ

وَأَعْصِيَاءُ۔

العِصَاءُ: نافرمان۔ گنہگار جِ عِصَاوُونٌ۔

المَعْصِيَّةُ: گناہ۔ لغزش جِ مَعَاصِي۔

عِصَةٌ (س) عِضًا وَعِصِيًّا: دانٹ سے

پکڑنا۔ کاٹنا۔ یا اور علی کے صلہ کے ساتھ

عَضَّ بِهِ: اور عَضَّ عَلَيْهِ: بھی بولا جاتا ہے

العَضَدُ: کٹا ہوا درخت۔ قوۃ۔ اونٹ کے بازو میں ایک مرض۔ جھاڑے ہوئے پتے۔
العَضَادُ: پست قدم مرد یا عورت۔ موٹے بازو والا۔
العِضَادُ: بازو بند۔ تعویذ وغیرہ جو بازو پر باندھا جائے۔ درائی۔ ہنسیا۔ اونٹ کے بازو میں علامت۔
العِضَادَةُ مِنَ الطَّرِيقِ: راستہ کا پہلو۔
عِضَادَتَا النَّبَابِ: چوکھٹ کے دونوں بازو۔
کہا جاتا ہے "فَلَانٌ عِضَادَةُ فَلَانٍ" فلاں فلاں کا معاون و مددگار ہے۔
العِضَادِيُّ وَالْعِضَادِيُّ وَالْفِضَادِيُّ: موٹے بازو والا۔
العِضِيدُ: کھجور کے درختوں کی قطار۔ درخت سے کٹا ہوا۔ ج عضدان۔
الأعْضَدُ: ڈبے بازو والا۔ جس کا ایک بازو چھوٹا ہو۔
العَوَاضِدُ: درخت خرماجو تھر کے دونوں جانب ہوں۔
المِعْضِدُ: درخت کاٹنے کا ہتھیار۔ معاضد۔
المِعْضَادُ: بازو بند۔ ہڈی کاٹنے کی بڑی چھری۔ ہنسیا۔ درائی۔
المِعْضَدَةُ: ٹھیلی۔ ٹوہ۔
العَضْرَسُ وَالْعَضْرَسُ: سردی اولے برف ٹھنڈا ہٹھاپانی۔ گورخر۔ ج عضارس۔
العَضْرَطُ: کھانے پر مزدوری کرنے والا۔ ج عضارط و عضارطة۔
العَضْرَطُ وَالْعَضْرَطُ: کمینہ۔
قَوْمٌ عَضَارِيطٌ: فقیر لوگ۔
عَضَلٌ (ن) عَضَلًا: غلیبہ بنگلی کرنا۔ مٹ کرنا۔ بہ الامس: سخت ہونا۔ السرجل: عطر پر مارنا۔
عَضَلٌ (ض ن) وَعَضَلٌ (س) عَضَلًا وَعَضَلًا وَعَضَلَاتَا الْمَرْأَةِ عَنِ الزَّوْجِ: نکاح کرنے سے روکنا۔ مٹ کرنا۔
الرَّجُلُ: رائٹر کر دینا۔
عَضَلٌ (س) عَضَلًا: بہت سخت گوشت والا

جانا۔
العَضْبُ: تیز کھوار۔ چرب زبان۔
الأعْضَبُ: بچھے کان والا۔ ٹوٹے سینگ والا۔ جس کا بھائی نہ ہو۔ بے مددگار۔ مؤنث غَضْبَاءٌ ج غَضْبٌ۔
العَضَابُ: بہت کاٹنے والا۔ بہت گالی دینے والا۔
المَغْضُوبُ: کمزور۔ لچا۔ کہا جاتا ہے "أَنَّهُ لَمَغْضُوبٌ اللِّسَانِ" جب کہ بولنے میں عاجز ہو۔
غَضِبَ عَضْبَةَ الْكَلْبِ: شیر کی مانند ہونا۔
العِضْبَانَةُ: چنگی کا پاٹ۔ دھوبی کا پتھر۔
غَضَبُهُ (ن) عَضْدًا: مدد کرنا۔ بازو پر مارنا۔
غَضَبٌ (ض) عَضْدًا الشَّجَرَةَ: درخت کو ہنسیا سے کاٹنا۔ اونٹوں کے لئے پتے جھاڑنا۔
عَضِدٌ (س) عَضْدًا وَعَضِدًا عَضْدًا: بازو میں درد ہونا۔ صفت عَضِدٌ: مؤنث غَضِدَةٌ۔
عَضِدٌ وَعَضِدٌ السُّهُمُ: تیر کا دائیں بائیں نکل جانا۔
غَاضِدَةٌ مُعَاضِدَةٌ: مدد کرنا۔
تَعَاضَدُوا: ایک دوسرے کی مدد کرنا۔
إِعْضَدَهُ وَتَعَضَّدَهُ: نکل میں لینا۔
إِعْضَدَيْهِ: مدد مانگنا۔ مضبوط ہونا۔
إِسْتَعَضَدَ الشَّجَرَةَ: درخت کو ہنسیا سے کاٹنا۔ الثَّمَرَةُ: پھل چننا۔
العَضْدُ: مٹ۔ مددگار۔ گوشہ۔ ج اعضداد۔
العَضْدُ وَالْعَضْدُ وَالْعَضْدُ: بازو ج اعضداد وَأَعَضَّدُ۔
عَضِدٌ كُلُّ شَيْءٍ وَعَضْدُهُ وَأَعْضَادُهُ: وہ چیز جس سے عمارت کے ارد گرد مضبوط کی جائے۔ جیسے حوض کے کنارے پتھر کھڑے کر دیئے جائیں۔ عَضْدُ الطَّرِيقِ: راستہ کا پہلو۔ کہا جاتا ہے "فَلَسْتُ لِمَنْ عَضِدُهُ" یعنی اپنے اعوان و انصار سے جدا ہو گیا۔

..... ه الزَّمَانُ: سخت ہونا الشَّيْءُ: لازم ہونا اور پکڑنا۔
عَضْبٌ: بہت کاٹنا۔
غَاضَتْ مُعَاضَةً وَعِضَادًا الذَّوَابُ: جانوروں کا ایک دوسرے کو کاٹنا۔
أَعَضَّهُ الشَّيْءُ: دانت سے کٹانا۔ أَعَضِبَ الْبَيْتُ: بہت پالی والا ہونا۔
تَعَاضًا: ایک دوسرے کو دانت سے کاٹنا۔
العِضُّ: بدخلق۔ خبیث۔ بخیل۔ بہت قوی۔ مصیبت۔ ہمسر مال کا تنظیم اعضاض و عضوض۔ العِضُّ: چھوٹا کاٹنے دار درخت ج اعضاض۔
العِضُّ: جو۔ گے ہوں۔ اسپت۔ سوکھی گھاس۔ چھوٹا کاٹنے دار درخت۔
العِضَاضُ: جو چیز دانت سے کاٹی جائے اور کھائی جائے۔ مونا درخت۔
العِضَاضُ: دانت سے کاٹنا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ عِضَاضٌ عَيْشٍ" یعنی سخت زندگی پر بڑا صابر ہے۔
العِضِيضُ: مٹ۔ سخت کاٹ۔ ہمسر۔
العِضْوُضُ وَالْعِضَاضُ: بہت کاٹنے والا۔
بِئْرٌ عِضْوُضٌ: بہت پانی والا کنواں۔
العِضَاضُ العِضَاضُ: ناک کا اوپر کا سخت حصہ۔
عَضَبٌ (ض) عَضْبًا: قطع کرنا۔
المَرَضُ: حرکت سے روکنا۔ ہ بالمرح: تیز ہ مارنا۔ ہ بالعصا: لاٹھی مارنا۔
عَنِ الْأَمْرِ: روک دینا۔ ہ بلسایہ: گالی دینا۔ عَضِبَ عَنهُ: رجوع کرنا۔
وَأَعَضِبَ النَّاقَةَ وَنَحْوَهَا: اونٹنی کا کان پھاڑ دینا۔
غَضِبَ (س) عَضِبًا الْكَيْشُ: مینڈھے کا پھٹے ہوئے کان والا ہونا۔ ٹوٹے ہوئے سینگ والا ہونا۔
عَضِبَ (ك) عَضُوبًا وَعَضُوبَةً: چرب زبان ہونا۔
غَاضِبَةٌ مُعَاضِبَةٌ: الْقَرْنُ: سینگ کا ٹوٹ

ہونا۔ پٹنی کا عضلہ کا موٹا ہونا۔ صفت عُضَل
وَعُضَلٌ۔
عُضَلٌ عَلَيَّ: تنگی کرنا۔ کسی کے حصول مقصد
میں حائل ہونا۔ عُضَلُ الْمَرْأَةِ عَنِ الزَّوْجِ:
نکاح کرنے سے روکنا..... الْمَكَانُ: تنگ
ہونا۔ کہا جاتا ہے "عُضَلَتِ الْأَرْضُ
بِأَهْلِهَا" لوگوں کی کثرت کی وجہ سے زمین
تنگ ہوگئی۔ عُضَلَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ الذَّجَاجَةُ
وَعَيْرُهُمَا مِنَ الْحَيَوَانِ بِوَلِيدِهَا: بچہ جینا
دشوار ہو گیا۔ صفت مُعْضَلٌ۔
أَعْضَلُ الْأَمْرُ: سخت ہونا۔ مشکل ہونا۔
أَعْضَلَتِ الْمَرْأَةُ وَنَحَوَهَا مِنَ الْحَيَوَانِ
بِوَلِيدِهَا: بچہ جینا مشکل ہونا۔ صفت مُعْضِلٌ
وَمُعْضِلَةٌ مِنَ مَعَاضِلِ. أَعْضَلُ بِهِ الْأَمْرُ:
مشکل ہونا۔ حیلوں کا تنگ ہونا..... الْأَمْرُ
فُلَانًا: غالب آنا اور عاجز کر دینا۔ أَعْضَلَنِي
فُلَانٌ: فلان کے کام نے مجھ کو تھکا دیا۔ عاجز
کر دیا (وَتَعْضَلُ الذِّئَابُ الْأَطْيَاءَ:
بیماری کا اطباء کو عاجز کر دینا۔
العضل: بہت بُرا۔ بڑا چالاک۔
العضل: بڑا چوہا۔ ج عضلان۔
العضلة: سخت گوشت۔ گوشت پٹھے کا مجموعہ
ج عضل وعضلات. العضلة: کبیر کے
مشابہ ایک درخت۔
العضيلة: بمعنی عضلة ج عضائل.
العضلة: مصیبت۔ ج عضل وعضل.
العضال: سخت۔ ذاء عضال: عاجز کر دینے
والامرض۔
المُعْضِلُ: نا۔ بہت بُرا۔ ذاء مُعْضِلٌ: تھکا
دینے والا یا علاج مرض۔
المُعْضِلَةُ: مَوْتٌ مُعْضِلٌ: بچیہ مشکل
مسکن مَعْضِلَاتٍ. الْمُعْضِلَاتُ: سختیاں۔
المُعْضِلَةُ وَالْمُعْضِلَةُ: بچیہ مشکل معاملہ۔
العظم: کمان کا بصر ج عظام: گہوں
صاف کرنے کا شاخ دار آلہ ج عَظْمٌ
وَأَعْضَمَةٌ۔
عَضَةٌ (ف) عَضُّهَا وَعَضُّهَا وَعَضُّهَا

وَعَضِيئَةٌ: جھوٹ بولنا۔ چغل خوری کرنا۔
جادو کرنا (..... عَضُّهَا) الْبَغِيرُ: بول کا
درخت کھانا..... الرَّجُلُ: صریح گالی دینا۔
بہتان لگانا۔
عَضَةٌ (س) عَضُّهَا وَأَعْضَةٌ: بہتان لگانا۔
جھوٹ بولنا۔
العاضه: فا۔ جادو گر۔ خِيَّةٌ عَاضِيَةٌ
وَعَاضِيَةٌ: سانپ جس کا ڈسا ہوا فوراً مر
جائے۔ ج عَوَاضِه۔
العضة: جھوٹ۔ جادو۔ ج عَضُونُ۔
العضاه: ہیرا کانٹے دار درخت۔ واحد
عِضَاهَةٌ وَعِضَةٌ: کہا جاتا ہے "فُلَانٌ
يَسْتَجِبُ غَيْرَ عِضَاهِهِ: جبکہ دوسرے کے
شعر کو اپنی جانب منسوب کرے۔
العِضَاهِيُّ وَالْعِضِيُّ وَالْقَضِيُّ مِنَ الْأَهْلِ:
کانٹے دار درخت کھانے والا۔ اونٹ۔
مَكَانٌ عَضِيٌّ: بہت کانٹے دار درختوں والی
جگہ۔
العاضيه: مَوْتٌ عَاضِيَةٌ: جھوٹ۔ بہتان۔
ج عَوَاضِه۔
عَضًا يَعْضُرُ عَضْوًا وَعَضِيٌّ قَضِيَّةٌ
الشَّيْءُ: متفرق کرنا..... الشاة: جدا جدا کرنا۔
عَضِيٌّ الْقَوْمُ: ممبر بنانا۔
العَضْرُ وَالْعَضْوُ: بدن کا حصہ۔ عضو۔ کسی
جماعت یا کمیٹی کا ممبر ج أَعْضَاءُ۔
العضة: فرقہ۔ کٹرا۔ جھوٹ۔ ج عَضُونُ۔
رَجُلٌ عَاضٍ: مرد خوش عیش۔ مرفد النال۔
عَضًا (ن) عَضًا وَعَضَطًا وَاعْتَضَطَ الْقَوْمُ:
کپڑا پھاڑنا۔ صفت مفعول عَضِيْطٌ. عَضًا
الرَّجُلُ إِلَى الْأَرْضِ: پچھاڑ دینا اور غالب
ہونا۔
إِنْعَطَ الْعُوْذُ: لکڑی کا مڑنا (..... وَتَعْطَطُ)
الْقَوْمُ: کپڑے کا پھٹنا۔
العطاط: بڑا بہادر۔ شیر۔
الاعطط: لبا۔
عَطَبٌ (س) عَطَبًا وَاعْتَطَبَ: ہلاک
ہونا..... الْفَرَسُ وَنَحْوُهُ: گھوڑے کا تھکانا۔

عَطَبٌ عَلَيْهِ: سخت غضبناک ہونا۔
إِعْتَطَبَ النَّازِي: آگ کو چھتھرے میں لینا۔
عَطَبٌ (ن) عَطَبًا وَعَطَبْنَا. الْقَطْنُ: روٹی
کا نرم ہونا۔ ملائم ہونا۔
عَطَبٌ. الشَّرَابُ: خوشبودار کرنے کی تدبیر
کرنا..... الْكِرْمُ: خوش آگوری کی گرہیں ظاہر
ہونا۔
أَعْطَبَهُ: ہلاک کرنا۔
العطبة: روٹی کا ایک کٹرا۔ چھتھرا جس میں
آگ لگائی جائے۔ کہا جاتا ہے "أَجْدُ رِيحُ
عَطْبِيَّةٍ" جلی ہوئی روٹی یا چھتھرے کی بو محسوس
کرتا ہوں۔
المعطب: فقیر۔
المعطب: ہلاکت کی جگہ ج معطاب۔
لُعْطَلٌ وَالْعُطْبُولُ وَالْعُطْبُولَةُ.
العِطْبُولُ: جوان خوشبورت دراز گردن
عورت۔ ج عَطَابِيلٌ وَعَطَابِيلُ. العُطْبِيلُ
وَالْعُطْبُولُ: دراز گردن ہرنی۔
عَطِرٌ (س) عَطْرًا: خوشبودار ہونا۔ صفت
عَطْرٌ۔
عَطْرَةٌ: خوشبودار کرنا۔
تَعَطَّرَ وَاسْتَعَطَّرَ: خوشبودار ہونا۔ تَعَطَّرَتِ
الْبَيْتُ: بغیر نکاح کے والدین کے پاس
رہنا۔
العِطْرُ: خوشبو۔ ایک قسم کی نباتات۔ ج
عَطُورٌ۔
العِطَارُ: عطر کو پسند کرنے والا۔ عطر زیادہ
لگانے والا۔ ج عَطْرٌ۔
العِطَارُ: بہت خوشبو والا۔ عطر فروش۔ پیشہ کو
(العِطَارَةُ) کہتے ہیں۔
المِعْطَارُ وَالْمِعْطِيرُ: بہت خوشبو والا۔
(نذر و مَوْتٌ)
عِطَارِدٌ: بدھ ستارہ اور اس کو فارسی میں دبیر
قلک کہتے ہیں۔ مصرف وغیر مصرف)
عِطَسٌ (ن ض) عِطَسًا وَعِطَسًا: چھینکنا
..... الصُّبْحُ: پو پھٹنا۔ روشن ہونا۔ کہا جاتا

ہے عَطَسٌ فَلَانَ وَعَطَسَتْ بِهِ اللَّجْمُ :
یعنی مر گیا۔
عَطَسٌ : چھینکنا۔

العاطس : فاسانے سے آنے والا ہرن۔
مُج۔

العاطوس : فاسانے سے آنے والا ہرن۔
مُج۔

العاطوس : فاسانے سے آنے والا ہرن۔
مُج۔

العاطس : یعنی دشمن مغلوب ہو گئے۔

عَطَشٌ (س) عَطَشًا : پیاسا ہونا۔ إِلَيْهِ :
مُتَّاق ہونا۔ صفت عَطَشَانٌ عِطَاشٌ

وعَطَشِي وَعِطَاشِي مَوْتٌ عَطَشِي
وعَطَشَانَةٌ عِطَاشٌ

أَعَطَشُ وَعِطَشُهُ : پیاسا کرنا۔ أَعَطَشُ
الرَّجُلُ : پیاسا جانور والا ہونا۔

عَاطَشُهُ فَعَطَشُهُ : پیاسا لگنے میں غلبہ کرنا
اور غالب ہونا۔ صفت مَعُولِي مَعَطُوشٌ

تَعَطَشُ : پیاسا ہونا۔

العطش والعطش : پیاسا۔ مَوْتٌ عِطَشَةٌ
عِطَشَةٌ

العطاش : بیماری کا نام جس میں میرا بی نہیں
ہوتی۔

المُعَطَشُ : پیاسا کا وقت۔ مُج معاطش۔
المُعَطَشَةُ : زمین جہاں پانی نہ ہو۔

معاطش۔
المُعَطَّاشُ : بہت پیاسا (مذکر و مؤنث)

عَطَطَ : القومُ عَطَطَةً : لڑائی وغیرہ میں
جھجکنا۔ عَطَطَ الكَلَامَ : کلام میں خلط
ملنا۔

عَطَفَ (ض) عَطْفًا وَعَطُوفًا إِلَيْهِ : مائل
ہونا۔ عَلَيْهِ : مہربانی کرنا۔ غَنَهُ : پھر جانا

..... ه عَنْ الْأَمْرِ : بنا دینا۔ عَطَفَ الْعَيْنَانِ :
لگام بھیرنا۔ كَلِمَةً عَلَى أُخْرَى : حرف

عطف سے ایک کلمہ کو دوسرے کے ساتھ
جوڑنا۔ السَّادَةُ : تکیہ کو دہرا کرنا۔ الشَّيْءُ :
جھکانا۔ مَوْرُثًا : عَطَفَتِ النَّاقَةَ عَلَى وَلَدِهَا :

اَوْثَى كَأَيْسَ عَجِيءٍ بِرَشِيْقٍ هَوْنَا أَوْرَاسَ كَادُوْدِه
بِهِنَا۔ عَطَفَ اللَّهُ قَلْبَهُ وَبَقَلِيَه : دل کو مہربان
کر دینا۔

عَطِيفٌ (س) عَطْفًا : لمبی پکلوں والا ہونا۔
عَطَفَ الوَسَادَةَ : تکیہ کو دہرا کرنا۔ السَّاقَةَ

عَلَى وَلَدِهَا : مہربان کرنا۔ الشَّيْءُ : جھکانا۔
تَعَطَّفَ : جھکانا اور مائل ہونا۔ عَلَيْهِ : رحم

دل ہونا اور احسان کرنا۔ الشُّوْبُ
وَالنُّوْبُ : کپڑا اوڑھ لینا۔

إِعْتَطَفَ : الشُّوْبُ وَالنُّوْبُ : کپڑا اوڑھ
لینا۔

انْعَطَفَ : مڑنا۔
تَعَاطَفَ : القَوْمُ : بعض کا بعض پر مہربانی کرنا

..... فِي مَشِيْعِهِ : ناز سے سر ہلاتے ہوئے
چلنا۔

استعطفه : مہربانی طلب کرنا۔ رحم چاہنا۔
العطف : کبھی۔ جھکاؤ۔

العطف : بغل..... مِنْ كَلِّ شَيْءٍ : ہر چیز کا
کنارا۔ عَطَفَ القَوْمُ : کمان کا گوشہ۔

عَطَفَا الرَّجُلُ : مرد کے دونوں پہلوں
أَعَطَافٌ وَعِطَافٌ وَعَطُوفٌ کہا جاتا ہے

”تَنَسَّى عَنِي عِطْفُهُ“ یعنی مجھ سے اعراض کیا
اور زیادتی کی ”هُوَ يَنْظُرُ فِي عِطْفِيهِ“ یعنی

وہ متکبر ہے ”مَرَّ ثَانِي عِطْفِيهِ“ یعنی وہ تکبر سے
چلا۔

العطفة : انگوڑی تیل کے لٹکے ہوئے حصے۔
العطف : پکلوں کی درازی۔ درخت پر لپٹنے

والی تیل۔ عشق بیچان۔ واحد عطفة۔
العطاف : چادر۔ ازار۔ تلوار۔ عَطْفٌ

وَأَعِطْفَةٌ۔
العاطف : فاسانے۔ ازار۔ گھوڑ دوڑ کا چھٹا گھوڑا۔

عِطْفٌ وَعِطْفَةٌ : العاطف والعاطف عند النجاة
: حرف عطف جیسے و اؤ۔ فَا۔ ثُمَّ۔ حَتَّى۔

وغيره۔
العاطفة : مَوْتٌ عِطَافٌ : شفقت۔ مُج

عاطفات وعواطف۔
العطيف : مِنَ النِّسَاءِ : نازک فرما ہر درار

عورت۔

العَطِيفَةُ : کمان۔ عِطَافٌ :
العَطُوفُ : مہربان۔ حَسَنٌ : امْرَأَةٌ عَطُوفٌ :

شوہر اور بیٹیوں سے محبت کرنے والی عورت
عِطَافٌ (.....) والعِطَافُوفُ : پھندا جس

میں میڑھے سرے کی لکڑی لگی ہو۔
عَوَاطِيفٌ : قَوْسٌ عِطْفِيٌّ : میڑھی کمان۔

المعطف : چادر۔ تلوار۔ عِطَافٌ :
مُعْطِيفٌ الوَادِي : وادی کا موڑ۔

المعطف : گاج معاطف۔
عِطَلٌ (س) عِطْلًا الرَّجُلُ مِنَ النَّمَالِ او

الآدِبُ وَحَمْدًا القَوْمُ مِنَ الوَتْرِ والغَرَسُ
مِنَ الرَّسْمِ : خالی ہونا۔ صفت عَاطِلٌ وَعِطْلٌ

وَعِطْلٌ : عِطْلًا : عِطْلًا
عِطْلَتٌ (س) وَعِطْلَتٌ (ن) عِطْلًا

وَعِطْلًا : السَّمْرَةُ : عورت کے بے زیور
ہونا۔ صفت عَاطِلٌ وَعَاطِلَةٌ وَعِطْلٌ عِطْلٌ

عَاطِلَاتٌ وَعَوَاطِلٌ وَعِطْلٌ وَأَعِطَالٌ :
عِطْلٌ (ن) عِطْلًا : الأَجِيرُ : مزدور کا بیکار

ہونا۔
عِطْلٌ : الشَّيْءُ : بے کار چھوڑ دینا۔..... السَّمْرَةُ

: زیوراتار لینا۔..... القَوْمُ : کمان سے تانت
نکال لینا۔ عِطْلَتِ الإِبِلِ : بغیر چرواہے کے

ہونا۔ عِطْلُ الإِبِلِ : بغیر چرواہے کے چھوڑ
دینا۔ السَّمْرُ : کونیس پر جانا چھوڑ دینا۔ ہر وہ چیز

جس کو شائع ذبح کر کے چھوڑ دیا جائے اس پر
تفصیل کا اطلاق ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے

”عِطْلَتِ الخِذْوُذِ او التَّغْوُزِ“ یعنی سر حدیں
بلا محافظہ کے چھوڑ دی گئیں۔ و ”عِطْلَتِ

السَّمْرَاعِ“ یعنی کھیتیاں جو بولی نہیں گئیں۔
”عِطْلَتِ الرَّجِيَّةِ“ رعیت بغیر والی کے رہی

ایسی قوم کو ”مُعْطَلُونَ“ کہیں گے۔
تَعَطَّلَ : بے کار ہونا۔ تَعَطَّلَتْ وَاسْتَعَطَّلَتْ

السَّمْرَةُ : عورت کا بے زیور ہونا۔
العطل : گاج۔ شخص۔ کہا جاتا ہے ”مَآ أَحْسَنَ

عِطْلَةً“ یعنی اس کا قد کتنا اچھا ہے۔

<p>عَطِيبٌ: الخلق: بدخلق۔ عَطِرٌ (س) عَطْرًا: الاثارة: برتن کو بھرتا۔ أَعَطَّرَ الشَّرَابَ: معدہ میں شہل ہونا اور اس اس سے (العطارة) ہے۔ العَطُورُ: شراب سے شکر سیرج عَطْر۔ العطار: شراب کی وجہ سے امتلاء۔ عَطَّعَطَ السَّهْمُ: تیر کا کاہتا ہوا نیزہ جانا السَّجَّانُ: بزدل کا لڑائی میں پیٹھ پھیرنا فِي السَّجَلِ: پہاڑ پر چڑھنا۔ عَطَّلَ (ن) وَعَطَّلَ (س) عَطْلًا وَتَعَاظَلَ وَعَطَّلَ وَاعْتَظَلَ الْكَلْبُ او السَّجَّادُ: کتے کا یا نڈیوں کا ایک دوسرے پر سوار ہونا۔ عَاظَلَ الشَّيْءُ: سوار ہونا..... الْكَلَامُ: کلام میں تعقیلا اور کر کہنا..... الشَّاعِرُ فِي القَافِيَةِ: تضمین کرنا اب الْكَلَامُ: اپنے ہی اوپر لوٹ کر آنے والی بات کہنا۔ عَطَّلَ وَتَعَطَّلَ: القَوْمُ عَلَيْهِ: مارنے کے لئے بھوم کرنا۔ تَعَطَّلَ فِي آثَرِهِ: تلاش کرنا۔ العَاظِلُ وَالْعَاظِلَةُ وَالْعَطْلِيُّ مِنَ السَّجَّادِ: ایک دوسرے پر چڑھی ہوئی نڈی۔ تَعَطَّلَ اللَّيْلُ: سخت تاریک ہونا۔ العظيمة: تاریکی۔ عَظْمٌ (ك) عِظْمًا وَعِظَامَةٌ: بڑا ہونا۔ صفت عَظِيمٌ عِظْمًا وَعِظَامًا وَعَظْمٌ..... الْأَمْرُ عَلَيْهِ: دشوار ہونا اور باعث مشقت ہونا۔ عَظْمٌ (ن) عِظْمًا: الكَلْبُ: کتے کو ہڈی کھلاتا..... عِظْمَةُ الرَّجُلِ: ہڈی پر مارتا۔ أَعْظَمَ الْأَمْرُ: بڑا ہونا..... الشَّيْءُ: بڑا کرنا۔ بڑا سمجھنا۔ اعظم الكلب عظمًا: کتے کو ہڈی کھلاتا۔ کہا جاتا ہے "مَا يَعْظُمُنِي أَنْ أَفْعَلَ مُحَمَّدًا" مجھ کو ایسا کرنے سے کوئی چیز ہول میں ڈالنے والی نہیں۔ عِظْمَةٌ: تعظیم کرنا۔ تو قیر کرنا۔ عِظْمُ الشَّاةِ: ہڈی۔ ہڈی کا ٹٹا۔ تَعْظُمُ: تلخ کرنا۔</p>	<p>کرنا۔ أَعْطَى إِعْطَاءً. ه الشَّيْءُ: دینا۔ أَعْطَى الْبِعِيْرُ أَوْ أَعْطَى الْبِعِيْرُ بِيَدِهِ: مطیع ہونا۔ عَاطَى مُعَاطَاةً وَعِطَاءً الرَّجُلُ الشَّيْءُ: دینا ه: خدمت کرنا۔ تَعَاطَى تَعَاطِيًا. الشَّيْءُ: لینا۔ الْأَمْرُ: مشغول ہو جانا..... الرَّجُلُ: کسی چیز کو پکڑنے کے لئے گیری کی انگلیوں پر کھڑا ہونا۔ کہا جاتا ہے "تَعَاطَيْنَا فَعَطَوْنَهُ" داد و دہش میں ایک نے دوسرے پر غلبہ حاصل کرنا چاہا میں غالب ہو گیا۔ تَعَطَّى تَعَطِيًا: جلدی کرنا..... الْأَمْرُ: مشغول ہو جانا۔ تَعَطَّى وَاسْتَعَطَّى اسْتِعْطَاءً: عطیہ مانگنا۔ العَطَا والعَطَاءُ: جو چیز دی جائے۔ رَج أَعْطِيَةٌ: رَجْ أَعْطِيَاتٍ. العِطِيَّةُ: بھٹی عطا ج عطایا وعِطِيَّاتٍ. العَطَاةُ وَالْعَطَاةُ: بھٹی عطا۔ المُعْطَاءُ: بہت زیادہ دینے والا (مذکورہ مؤنث رَجْ مَعَاظٍ وَمَعَاظِيٍّ. عَظَّةٌ (ن) عَظًّا بِالْأَرْضِ: چپکا دینا۔ عَظَّنُهُ الْحَرْبُ: تکلیف پہنچانا۔ عَاظُهُ مُعَاظَةً وَعِظَاظًا: بھٹی کرنا۔ تکلیف پہنچانا۔ عَاظَ الْقَوْمُ: جنگ میں ایک دوسرے پر بھٹی کرنا۔ العِظَّةُ: جنگ میں بھٹی۔ عَظَبٌ (ض) عَظْبًا الطَّائِرُ: پرندے کا دم کی جڑ کو جلدی جلدی بلانا۔ عَظَبٌ (ن ض) عَظْبًا وَعَظْوَبًا جِلْدُهُ: کھال خشک ہونا..... يَدُهُ: کام کرنے سے ہاتھ کا موٹا ہونا۔ عَظَبٌ (س) عَظْبًا عَلَى الْعَمَلِ: صبر سے برداشت کرنا۔ موٹا ہونا۔ صفت عَظْوَبٌ. عَظْبُهُ عَنْ بُغْيَتِهِ: نالہ۔ تاخیر کرنا..... ه عَلَى الشَّيْءِ: عادی اور صابر بنانا۔ العَاظِبُ وَالْعَظَبُ: جنگل اور خشک مقامات میں اترنے والا۔</p>	<p>العَطْلَةُ: بیکاری۔ العَطِيلُ وَالْعَيْطَلُ: زنگھور کے خوشے کا تہ۔ العَيْطَلُ: خوبصورت دراز گردن۔ العَطْلَاءُ مِنَ النِّسَاءِ: بے زیور عورت۔ الْمِنْطَالُ مِنَ النِّسَاءِ: بے زیور رہنے کی عادی۔ التَّعْطِيلُ: بیکار رہنا۔ مَذْهَبُ التَّعْطِيلِ: صفات باری تعالیٰ کے انکار کرنے والوں کا مذہب۔ المُعْطَلَةُ: مذہب تعطیل والے۔ إِعْطَمَ. الرَّجُلُ: ہلاک ہونا۔ صفت عَاظِمٌ وَعِطِيٌّ رَجْ عَظْمٌ. العِظْمُ: دھکی ہوئی اون۔ عَظَنَ (ن ض) عَظْنَا الْجِلْدُ: کھال کو گوبر یا نمک میں ڈالنا۔ صفت مَقْوِيٌّ عِطِيٌّ وَمَقْطُونٌ (..... عَطُونًا) الْبِعِيْرُ: اونٹ کا سیراب ہو کر بیٹھنا۔ صفت عَاظِنٌ رَجْ عَظَانٌ وَعَطُونٌ عِظَنَةٌ: مؤنث عَاظِنَةٌ رَجْ عَاظِنَاتٌ وَعَوَاظِنٌ وَعَطُونٌ. عِظَنٌ (س) عَظْنَا. الْجِلْدُ: کھال کا نمک یا گوبر میں سڑنا۔ صفت عِظَنٌ. عَظَنَ الْجِلْدُ: کھال کو نمک یا گوبر میں ڈالنا (..... وَأَعْظَنَ) الْإِبِلُ: دوبارہ پانی پلانے کے لئے آرام دینا۔ عَظَنَ لِإِبِلٍ: اونٹ کے لئے بیٹھنے کی جگہ بنانا۔ عَظَنَتِ الْإِبِلُ: اونٹ کا سیراب ہو کر بیٹھنا۔ إِنْعَظَنَ الْجِلْدُ: کھال کا نمک یا گوبر میں سڑنا۔ العِظَنُ وَالْمُعْظِنُ وَالْمُعْظِنُ: اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ۔ حوض کے ارد گرد بکریوں کے بیٹھنے کی جگہ۔ رَجْ مَعَاظِنٌ. العِظَانُ: گوبر یا نمک جس میں کھال کو ڈالا جائے تاکہ بال الگ ہو جائیں۔ رَجُلٌ عَظِيْنٌ وَعِظِيْنَةٌ: بد بودار مرد۔ عَظَا يَعْظُو عَظْوًا. الشَّيْءُ وَالْيَهُ: لینا لینیہ يَدُهُ: بند کرنا۔ عَطَّى تَعْطِيَةَ الرَّجُلِ: جلدی کرنا۔ خدمت</p>
---	--	--

تَعَاظُمُ: تکبر کرنا۔ تَعَاظُمَةُ الْأَمْرِ: بڑا ہونا۔
 کہا جاتا ہے "أَمْرٌ لَا يَتَعَاظُمُهُ شَيْءٌ" وہ
 ایسا امر ہے جس سے کوئی اس کے لحاظ سے
 بڑا نہیں۔
 اسْتَعْظُمُ: تکبر کرنا..... الاْمْرُ: بڑا بھجنا۔
 انکار کرنا..... الشئُ: بڑا حصہ لے لینا۔
 العَظْمُ: ہڈی ج اعظم و عظام و عظامۃ.
 عَظْمُ الشئِ و عَظْمُه: چیز کا بڑا حصہ۔ ج
 اعظام.
 العَظْمُ و العَظْمُ و العَظْمُ: بڑائی۔
 عَظْمُ الطَّرِيقِ: راستہ کا درمیان۔
 العُظَامُ و العُظَامُ: بڑا۔ مَوْتٌ عَظَامَةٌ
 و عَظَامَةٌ.
 العَظْمَةُ: ہڈی کا ٹکڑا۔
 العَظْمَةُ مِنَ السَّاعِدِ او اللِّسَانِ: کلائی یا
 زبان کا موٹا حصہ ج عَظْمَاتٌ. عَظْمَاتٌ
 القَوْمِ: سرداران قوم..... و العَظْمُوْتُ
 و العَظَامَةُ: تکبر۔ نَخْتٌ۔ فِخْرٌ۔
 العِظَامَةُ و العُظَامَةُ و العَظْمَةُ و الاِغْطَامَةُ:
 گدی جس کو عورتیں سرین پر بڑا اٹھا ہر ہونے
 کے لئے باندھتی ہیں۔
 العَظِيْمَةُ: مَوْتٌ عَظِيْمٌ: سخت مصیبت۔ ج
 عَظَائِمٌ. عَظَائِمُ اللّٰهِ: اللہ کے بڑے بڑے
 امور۔
 العَظِيْمِيُّ: سفیدی مائل کبوتر۔
 مُعْظَمُ الشئِ: چیز کا بڑا حصہ ج مَعَاظِمُ: کہا
 جاتا ہے "إِنَّ لِفُلَانٍ مَعَاظِمَ وَاجِبَةً
 الْمُرَاعَاةِ" فلاں کے لئے بڑے بڑے حقوق
 ہیں جن کی رعایت واجب ہے۔
 الْمُعْظَمَةُ: سخت مصیبت۔
 عَظَا يَعْظُو عَظْوًا. فَلَانًا: ٹمکن کرنا۔ غیبت
 کرنا۔ بھلائی سے روکنا۔ زہر پلانا۔
 عَظَى يَعْظِي عَظِيًّا فَلَانًا: ٹمکن کرنا۔
 العِظَايَةُ العِظَايَةُ و العِظَاءَةُ و العِظَاءَةُ:
 چھٹکی کے مشابہ ایک جانور ج عِظَاءَةٌ و عِظَاءَةٌ
 و عِظَايَاتٌ و عِظَايَا.
 عَفٌّ (ض) عَفَّةٌ و عَفَافًا و عَفَافَةٌ

و تَعَفُّفٌ: حرام یا غیر مستحسن سے رکننا۔ پاک
 دامن ہونا۔ صفت مذکر عَفِيفٌ و عِفٌّ ج
 اِعْفَةٌ و اِعْفَاءٌ و عِفْوَانٌ: صفت مؤنث عَفِيفَةٌ
 و عِفَّةٌ ج عَفِيفَاتٌ و عَفَائِفٌ و عِفَاتٌ
 عَفٌّ عَنْ كَذَا: باز رہنا۔ تَعَفُّفٌ: جھکنا
 پاک دامن بننا۔ تَحَنُّنٌ کے بقید دودھ کو پینا۔
 اَعْفَى اللّٰهُ فَلَانًا: پاک دامن کرنا۔
 تَعَاثُ النَّاقَةِ: اونٹنی کو دوسری مرتبہ دھونا.....
 المَرِيضُ: علاج کرنا۔
 اِعْتَفٌ و اسْتَعْفٌ عَنِ النِّعِيْثِ: رکننا.....
 البَعِيْزُ البَيْسِيُّ: اونٹ کلائی کے اوپر اوپر خشک
 گھاس چرنا۔
 العِوْفَةُ: مہس۔ پارسائی۔ پاکدامنی۔
 طہارت بدن۔
 العُقَّةُ و العُقَاةُ: تھن میں بقید دودھ اور اسی
 سے ہے سألہ فما اَعْطَاهُ الاِ عَفَافَةٌ: یعنی
 تھوڑا سا دیا۔ العِوْفُ: ذوا۔ کہا جاتا ہے
 "جَاءَ عَلِيٌّ عِفَانٍ ذَلِكَ" یعنی وہ فلاں
 وقت میں آیا۔
 عِفَّتْ (ض) عَفْنَا الشئُ: موڑنا اور توڑنا
 كَلَامُهُ و فِى كَلَامِهِ: لکنت کی وجہ سے
 بولنے میں منہ میڑھا کرنا۔ صفت عَفَاتٌ.
 العَفَّتْ: لکنت۔
 الاِعْفَتُ: بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا
 بے وقوف۔
 عَفَجَهُ (ض) عَفَجًا بِالْعَصَا: لاشی مارنا۔
 العَفْجُ او لِعَفْجٍ و العَفْجُ و العَفْجُ: آنت ج
 اغْفَاجٌ و عَفْجَةٌ.
 المِعْفَجُ: بے وقوف۔
 المِعْفُجَةُ و المِعْفَاجُ: لاشی۔ کپڑے
 دھونے کی موگری اور عوام (مخجاط) کہتے
 ہیں۔
 عَفَدٌ (ض) عَفَدًا و عَفَدَانًا: دونوں ٹانگیں
 ملا کر کودنا۔
 اِعْفَسَدَ: جھوک کی وجہ سے مرنے کے لئے
 دروازہ بند کرنا اور سوال نہ کرنا۔
 عَفْرَهُ (ض) عَفْرًا فِي التَّرَابِ: مٹی میں

تھپیرنا۔ زمین میں دھسا دینا..... الشئُ:
 زمین پر چک دینا۔
 عَفِيرٌ (س) عَفْرًا و اسْتَعْفَرُ: خاکستری
 رنگ ہونا۔ خاک آلود ہونا۔ صفت اَعْفَرٌ.
 عَفْرَهُ. فِي التَّرَابِ: مٹی میں تھپیرنا۔ زمین
 میں دھسا دینا۔ جو شخص ذلیل کیا گیا ہو اس
 کے لئے "قَدْ عَفِرَ و اُرْغِمَ" بولا جاتا ہے
 "عَفِرَ اللّٰحْمُ" دھوپ میں ریت پر خشک کرنا
 الشئُ: سفید کرنا۔ عَفْرَتُ الْمَرْأَةِ فِي
 العِطَامِ: عورت کا دودھ چھڑانے کے لئے
 پستان پر مٹی لگانا۔
 اِعْتَفَرَ. الشئُ: خاک آلود ہونا..... الثَّوْبُ
 فِي التَّرَابِ: کپڑے کو مٹی میں تھپیرنا.....
 فَلَانٌ: قادر ہونا۔ قوی ہونا..... الرَّجُلُ:
 زمین پر چک دینا۔ کودنا..... هِ الْاَسَدُ: شیر کا
 بچھاڑنا۔
 تَعَاَفَرَ. الشئُ: شہید کا سفید ہونا۔
 تَعَفَّرَا و اِنْعَفَرَا فِي التَّرَابِ: مٹی میں لوٹ
 پوٹ لگانا..... الشئُ: خاک آلود ہونا۔ تَعَفَّرَ
 الْوَحْشُ: وحشی جانور کا موتا ہونا۔
 العَفْرُ و العَفْرُ: مٹی۔ خاک۔ ج اَعْفَارٌ.
 العِغْفَرُ و العِغْفَرُ: زسور یا مطلقا سور۔ بہادر۔
 سخت موٹا۔ العِغْفَرُ: بعد۔ بے رونق بازار۔
 مہینے کی ساتویں آٹھویں نویں رات۔ مرد
 دلیر و چالاک۔ مونا۔ ج اَعْفَارٌ و عِفَارٌ.
 رَجُلٌ عَفْرٌ و عِغْرٌ و عِغْرِيٌّ و عِفْرَانِيَّةٌ: خبیث
 مرد۔
 الاَعْفَرُ: بہن کی ایک قسم جو کم دوڑتا ہے۔
 العَفْرَةُ: خاکستری رنگ۔
 العَفْرَةُ و العَفْرَةُ: مِنَ الدِّيَنِكِ: مرغ کے
 گردن کے بال..... مِنَ الْاِنْسَانِ: وسط سر
 کے بال..... مِنَ الْاَسَدِ: شیر کے بال۔
 غَفْرَةُ الْحَرِّ: گرمی کی شدت۔
 العَفْرُ: زمانہ۔ وقت۔ مہینہ۔
 العَفْرَةُ: مخلوط لاوگ۔ غَفْرَةُ و غَفْرَةُ الْحَرِّ
 و التَّبْرُدُ: گرمی یا سردی کی شدت۔
 العَفَارُ: بغیر شکر وغیرہ کا ستو۔ درخت جس

سے آگ نکالنے کا کام لیا جاتا ہے واحد
عَفَاةٌ۔

العَفَاةُ: خباثت۔ برائی۔

العَفْرِیةُ: بربخت مکار۔ خبیث۔

العَفْرِیةُ وَالْعَفْرَاءُ مِنَ الدِّیْبِ وَالْإِنْسَانِ
بِمَعْنَى عَفْرَةٍ: جب کوئی غضبناک ہو کر آئے تو
کہا کرتے ہیں۔ "جَاءَ نَافِثًا عَفْرِیةً"۔

العَفْرِیةُ: گوشت جو دھوپ میں ریت پر خشک
کیا جائے۔ حُبْرٌ عَفْرِیةٌ: بلا سالن کے روٹی
(.....) وَالْمَعْفُورُ: مٹی میں تھینا ہوا۔

العَفْرِیةُ: وہ عورت جو پڑوسن کو بدیہ نہ سمجھتی
ہو۔

العَفْرِیةُ: گہریا کی گولی۔

العَفْرَارُ: مَوْنُثٌ کھجور میں مذکر کھجور کا پھول
ڈالنے والا۔

العَفْرَاءُ: الاَعْفَرُ: کا مَوْنُثٌ جِ عَفْرٌ: سفید
زمین..... مِنْ لِبَالِی الْقَمَرِ: تیرھویں
رات۔

العَفْرِیةُ: مرد قوی کامل۔ چالاک اور کاموں
کو کر ڈالنے والا۔ لَبِثٌ عَفْرِیةٌ: شیر۔
عَفْرِیةٌ: نام شیر کی جھاڑی کا۔

العَفْرِیةُ: ساتھیوں کے ساتھ چلنے والا تاکہ
ان کے پیچے ہوئے سے کچھ حاصل کر لے۔
تَعْفَرْتُ: دیو ہونا۔ شریر ہونا۔

العَفْرِیةُ: سخت خبیث۔ چالاک اور کاموں
کو کر ڈالنے والا اور یہ انسان جنات
شیاطین سب میں سے ہوتا ہے۔ جِ
عَفَارِیةٌ: مَوْنُثٌ عَفْرِیةٌ۔

عَفْرَسَةٌ: پچھاڑنا اور غالب ہونا۔

العَفْرِیةُ وَالْعَفْرِیةُ وَالْعَفْرِیةُ
وَالْعَفْرِیةُ وَالْعَفْرِیةُ: شیر۔
العَفْرِیةُ: شتر مرغ۔

عَفْرٌ (ض) عَفْرًا: اَهْلُهُ: اپنی بیوی سے
کھیل کود کرنا..... الْجَمَالَ بَعِیْرَهُ: ساربان
کا اونٹ کو بٹھانا۔

العَفْرُ: مَصٌّ..... العَفْرَانُ: کھایا ہوا اخروٹ۔
العَفْرَاءُ: ٹیلہ۔

عَفْسَةٌ (ض) عَفْسًا: پچھاڑنا اور روندنا۔ قید
کرنا..... عَنِ حَاجِیْبِهِ: حاجت سے باز رکھنا

رکھنا..... العَفْسِیةُ: جانور کو بغیر چارے کے
رکھنا..... هُ: زمین پر چمٹا دینا۔ سختی سے زمین
پر کھینچنا..... هُ بُرْجِلَهُ: چوڑ پر لات مارنا۔

عَفْسَةٌ: کشتی کرنا۔ مزاولت کرنا۔ کہا جاتا
ہے "بَاتَ یُعَافِسُ الْأُمُورَ"۔
تَعَافَسَ وَإِعْتَفَسَ الْقَوْمُ: آپس میں کشتی
کرنا۔

إِنْعَفَسَ فِي التُّرَابِ: خاک آلود ہونا۔ فی
المَاءِ: پانی میں غوطہ لگانا۔
العَفْسُ: فساد۔

المَعْفُوسُ: قیدی۔

عَفَشَ (ض) عَفْشًا الشَّیْءُ: جمع کرنا۔
العَفْشَةُ: بے خبری و برکت آدی۔
الاعْفَشُ: کمزور نگاہ والا۔

عَفْضُهُ (ض) عَفْضًا: اُکھیرنا۔ موڑنا۔
الرَّجُلُ: کشتی میں غالب آنا۔ عَفَضَ حَقَّهُ
مِنْهُ: حق لینا۔

عَفَضَ وَأَعْفَضَ وَالْقَارُورَةُ: شیشی میں
کاگ لگانا۔ ڈاٹ لگانا۔ اَعْفَضَ الْجَرَّ:
زوشتائی میں ماڑو ڈالنا۔

عَفَضَ التُّوْبُ: کپڑے کو ماڑو سے رنگنا۔
عَافَضَهُ مُعَافَضَةً: کشتی لڑنا۔
العَفْضُ: ماڑو۔ ماڑو کا درخت۔ بلوط کا
درخت۔

العَفْضُ: ناک کی کچی۔
العَفْضُ: کیلا۔
العَفْضَةُ: کیلا پن۔

العَفْضُ: گاگ۔ ڈاٹ۔ شیشی کا سر بند۔
عَفَطْتُ (ض) عَفَطًا وَعَفِطًا وَعَفَطَانًا:
العَنْزُ: بکری کا رخ خارج کرنا..... الضَّأْنُ:
بھیڑ کا چھینکنا..... (عَفْطَظَ الرَّاعِیَ: بکری
کے گوز کے مانند ہونٹوں سے آواز نکالنا۔

بَعْنَمِهِ: بھیڑ کی چھینک کے مانند آواز سے
بھیڑ کو ڈانٹنا یا بانٹنا..... فَلَانٌ فِی کَلَامِهِ:
لگت کرنا۔

العَافِطُ: فار.....) وَالْعَفِطُ: بہت گوز کرنے
والا۔

العَافِطَةُ: مَوْنُثٌ عَافِطٌ: بھیڑ اور اسی سے
عرب کا قول ہے "عَالَهُ عَافِطَةٌ وَلَا نَافِطُهُ"
یعنی اس کے پاس نہ بھیڑ ہے نہ بکری۔ مراد
یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں۔

الاعْفِطُ: بے وقوف۔
العَفَاطُ الْعِطَاطُ وَالْعِطِطُ: ہکلا۔ لگت
والا۔

عَفَقَ (ض) عَفَقًا: الرَّجُلُ: غائب ہونا۔
بلا کسی ضرورت کے آنا جانا۔ تیز جانا۔ تھوڑا
سارونے کے بعد جاگنا پھر سونا۔ عَفَقَهُ

بِالسُّوْطِ: کوڑے سے بہت مارنا..... هُ عَنِ
الْأَمْرِ: منع کرنا..... الْعَمَلُ: کام کو ادھورا کرنا
..... الشَّیْءُ: جمع کرنا..... عَلَيْهِ الضَّیْدُ: کسی
کی جانب شکار کو ہانک کر لانا..... السَّرِیْحُ
الشَّیْءُ: پراگندہ کرنا۔ عَفَقَ الْجَمَارُ: گدھے
کا گوز کرنا۔

عَفَقَ الْغَنَمَ بَعْضَهَا عَلَی بَعْضٍ: بکریوں کا
اکٹھا کرنا۔
عَافَقَهُ مُعَافَقَةً وَعِافًا: فریب دینا۔ عَافَقَ
الذَّئْبُ الْغَنَمَ: بھیڑیے کا بکریوں کے آتے
جاتے میں نقصان کرنا۔

أَعْفَقَ: بلا ضرورت کے اکثر آنا جانا۔
تَعَفَّقَ بِهِ: پناہ لینا۔
إِعْتَفَقَ الْقَوْمُ بِالسُّوْطِ: آپس میں تلوار
بازی کرنا..... الْأَسَدُ فَرِیْسَةً: شیر کا شکار پر
مائل ہونا۔

أَنْعَفَقَ: فِی حَاجِیْبِهِ: جلدی کرنا۔
العَفَاقَةُ: ذبیر۔

رَجُلٌ مِعْفَاقٌ الزَّیَارَةُ: بہت ملاقات کرنے
والا۔

المُنْعَفِقُ: پانی پر سے واپس ہونے والا۔
عَفَفَ (ض) عَفْفًا الْكَلَامَ: سیدھی طرح
سے بات نہ کرنا۔ بے ہودہ کلام کرنا۔
عَفَفَ (س) عَفْفًا وَعَفْفًا: سخت بے
وقوف ہونا۔ مَفَّتَ أَعْفَفَ وَعَفَفَ

عَفَفَ (س) عَفْفًا وَعَفْفًا: سخت بے
وقوف ہونا۔ مَفَّتَ أَعْفَفَ وَعَفَفَ

عَفَفَ (س) عَفْفًا وَعَفْفًا: سخت بے
وقوف ہونا۔ مَفَّتَ أَعْفَفَ وَعَفَفَ

عَفَفَ (س) عَفْفًا وَعَفْفًا: سخت بے
وقوف ہونا۔ مَفَّتَ أَعْفَفَ وَعَفَفَ

وَعَفِيكَ: مَوْنٌ عَفَاكَ عَفَاكَ
الْأَعْفُكَ: بَأْسٌ هَاتِمٌ مِنْكَ عَفَاكَ
عَفَنَ (ض) عَفْنَا وَعَفَنَ اللَّحْمُ: غَوَسَ فِيهِ
بَدِيدٌ وَرَكَرَكَ عَفْنٌ فِي الْجَبَلِ: يَهَارُ بِرُجُلِهِ
عَفَنَ (س) عَفْنَا وَعَفُونَةٌ وَعَفَنَ الشَّيْءُ:
تَرَى فِيهِ وَجْهًا مِنْ خَرَابٍ هُوَ..... السَّلْحَمُ:
غُوشَةٌ كَالْبَدِيدِ هُوَ..... صَفْتٌ عَفِنٌ
وَمَعْفُونٌ وَمَعْفَنٌ وَمَعْفِنٌ.

الْعَفْنُ وَالْمَعْفُونَةُ: مَوْزِيٌّ مَرَضٌ جَوْكَ أَعْضَاءِ
تَنَاسَلٌ مِنْ شَرُوعٍ هُوَ فِيهِ أَوْرَانٌ كَوِثْرَابٍ كَر
دِيَتَا هِيَ يَهْرُجُ كَثْرَتُ كَرْتِ كَرْتِ كَرْتِ كَرْتِ كَرْتِ كَرْتِ
دَوْمٌ كَرْتِ كَرْتِ كَرْتِ كَرْتِ كَرْتِ كَرْتِ كَرْتِ كَرْتِ
ان امراض متعدية کو ختم کرنے کے لئے
جراثیم مارا دیا جائے اور ایجاب کی گئیں۔

أَعْفَنَ: الشَّيْءُ يَدِيدُ أَوْ يَأْتِي بِأَنْوَاعِهِ

عَفَا يَعْفُو عَفْوًا عَنْهُ وَهَذَا ذَنْبُهُ وَعَفَا عَنْ
ذَنْبِهِ: دَرَّكَ رَكَرَكَ عَفَاً مَعَاً كَرْتِ كَرْتِ كَرْتِ كَرْتِ
دِينَا..... اللَّهُ عِنْدَهُ: كَرْتِ كَرْتِ كَرْتِ كَرْتِ كَرْتِ كَرْتِ

عَنِ الشَّيْءِ: رَكَرَكَ..... عَنِ الْحَقِّ: سَأَلَ كَرْتِ كَرْتِ
..... الشَّيْءُ: زِيَادَةٌ كَرْتِ كَرْتِ كَرْتِ كَرْتِ كَرْتِ كَرْتِ

بُرْهَ جَانَا..... الصُّوفُ: أَوْنٌ كَانَا..... فَلَانَا:

كَسَى كَرْتِ كَرْتِ كَرْتِ كَرْتِ كَرْتِ كَرْتِ كَرْتِ كَرْتِ

عَفَبَ الْأَرْضُ: زَمِينٌ كَسَبَرِيٌّ سَدَّكَ

جَانَا..... الشَّيْءُ: زِيَادَةٌ أَوْ لَبَا هُوَ عَفَبَ

الرِّيْحُ الْأَثَرُ أَوْ الْمَنْزِلُ: مَنَادِيْنَا..... (عَفَا

عَفْوًا وَعَفَاً وَعَفْوًا) الْأَثَرُ أَوْ الْمَنْزِلُ

: مَنَادِيْنَا..... فَلَانُ: بَلَاكٌ هُوَ مَرْنَا

عَفَا يَعْفُو عَفْوًا وَعَفِيٌّ يَعْفِي عَفِيًّا الشَّعْرُ

: بَالُونَ كَوِجُودٌ دِينَا يَهَابُ تَكْرَبُ كَرْتِ كَرْتِ كَرْتِ كَرْتِ

هُوَ جَانَا..... عَفَسِيٌّ تَعْفِيَّةٌ: بَالُونَ كَالسَّابِقِ

زِيَادَةٌ هُوَ..... عَفَبَ الرِّيْحُ الْمَنْزِلُ: مَنَادِيْنَا

..... عَلِيٌّ مَا كَانَ مِنْهُ: بَكَرْتُ كَرْتِ كَرْتِ كَرْتِ كَرْتِ

كَرْنَا..... عَفَبَ الْعِلَّةُ صَاحِبَهَا: بَلَاكٌ كَرْنَا

عَافِيٌّ مُعَافَاةٌ وَعَافَاءٌ وَعَافِيَّةٌ اللَّهُ فَلَانَا:

صَحْتٌ دِينَا بَالًا أَوْ بَرَاءَةً سَيِّئًا.....

الشَّعْرُ: بَالُونَ كَوِجُودٌ كَرْتِ كَرْتِ كَرْتِ كَرْتِ
..... الرَّجُلُ: بَهْتٌ مَالٌ دَارٌ هُوَ..... زَانِدٌ مَالٌ كَرْتِ
خَرَجَ كَرْنَا..... هُوَ مِنَ الْأَمْرِ: بَرِيٌّ كَرْتِ كَرْتِ
زَيْدًا بِحَقِّهِ: حَتْمٌ كَوِجُودٌ طَرِيقَةٌ سَادَا كَرْتِ
دِينَا..... الرَّجُلُ: دِينَا..... السَّمْرِيُّ: يَهَارُ كَرْتِ
صَحْتٌ يَابٌ هُوَ.....

تَعْفَى تَعْفِيًّا: مَنَادِيْنَا أَوْ مَضْمَلٌ هُوَ.....

تَعَافَى تَعَافِيًّا: عَافِيَّةٌ يَابَا..... الشَّيْءُ:

جَهُودًا.....

أَعْفَى إِعْفَاءً: فَلَانَا: كَسَى كَرْتِ كَرْتِ كَرْتِ

مَعْرُوفٌ كَرْتِ كَرْتِ كَرْتِ كَرْتِ كَرْتِ كَرْتِ كَرْتِ

إِلَيْهِ الْبَيْسُ: أَوْ بَرٌّ أَوْ بَرٌّ سَخِيكٌ كَرْتِ كَرْتِ

كَرْنَا..... اسْتَعْفَى الرَّجُلُ مَكْلَفَهُ: اسْتَعْفَى

دِينَا..... مَعَانِيٌّ كَرْنَا..... كَرْنَا جَانَا هِيَ

"اسْتَعْفَى مِنَ الْخُرُوجِ فَاعْتَقَاهُ" يَعْنِي فَلَانَا

نَعْنِي كَرْتِ كَرْتِ كَرْتِ كَرْتِ كَرْتِ كَرْتِ كَرْتِ

كَرْنَا.....

الْعَفَاءُ: مَعْنَى..... كَرْنَا..... كَرْنَا كَرْتِ كَرْتِ

بَلَاكٌ..... آكَلَهُ كَرْنَا.....

الْعَفَاءُ: زِيَادَةٌ لِبَالٍ..... شَرْمَرٌ كَرْتِ كَرْتِ

أَوْنٌ كَرْتِ كَرْتِ.....

الْعَفْوُ: عَمْدَةٌ جَزِيَّةٌ فَضْلٌ وَمَعْرُوفٌ.....

مِنَ الْمَالِ: خَرَجَ سَزَانِدٌ جَسَادٌ دِينَا وَشَوَار

نَدِيْنَا..... زَمِينٌ جَسَادٌ مَعْنَى كَرْتِ كَرْتِ كَرْتِ

الْعَفَا وَالْعَفْوُ وَالْعَفْوُ وَالْعَفْوُ: كَرْنَا كَرْتِ

رَجْعًا وَعَفْوَةٌ.....

الْعَفْوَةُ: دِيَتٌ..... كَرْنَا..... رَجْعٌ عَفْوٌ:

السَّعْفَةُ وَالْعَفْوَةُ وَالْعَفْوَةُ: هَانِدِيْنَا كَرْتِ

جَمَاكٌ..... عَفْوَةُ الشَّيْءِ: جَزِيَّةٌ خَالِصَةٌ..... عَفْوَةٌ

الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ: عَمْدَةٌ كَرْنَا بَالِيْنَا..... الْعَفْوَةُ

وَالْعَفْوَةُ: مَرْدٌ كَرْنَا.....

الْعَفَاةُ: شَوْرَبٌ كَرْنَا كَرْنَا كَرْنَا كَرْنَا كَرْنَا

جَانَا.....

الْعَفَاةُ: دِيَّةٌ كَرْنَا.....

الْعَفَاةُ وَالْعَفَاةُ وَالْعَفَاةُ: هَانِدِيْنَا كَرْتِ

جَمَاكٌ.....

الْعَفْوُ: مَعَاةٌ كَرْنَا وَالْمَعَاةُ مَعَاةٌ.....

كَرْنَا.....

الْعَافِيَّةُ: قَانَةٌ..... دَرَّكَ رَكَرَكَ دَرْنَا.....

لِبَالٍ دَرْنَا..... مَعْنَى دَرْنَا عَفِيَّةٌ: دِيَّةٌ كَرْنَا

شَوْرَبٌ..... كَرْنَا..... بَالِيْنَا كَرْنَا..... كَرْنَا

بَرَاتَرْنَا..... وَالْمَعْمَانُ..... هَرَطَابٌ بَخْشٌ وَ

رَزَقٌ..... رَجْعًا وَعَفِيَّةٌ وَعَافِيَّةٌ: كَرْنَا جَانَا هِيَ

"كَثُرَتْ عَلَيَّ الْكُرْبَى عَافِيَّةٌ" كَرْنَا

بَخْشٌ كَرْنَا..... كَرْنَا..... كَرْنَا.....

الْعَافِيَّةُ: عَافِيَّةٌ كَرْنَا..... كَرْنَا..... كَرْنَا.....

طَابَ رَزَقٌ عَافِيَّةٌ وَعَوَافِيَّةٌ.....

الْمُعْفَى: قَانَةٌ..... كَرْنَا..... كَرْنَا.....

عَقَى (ن) عَقَا النَّوْبُ: كَرْنَا..... كَرْنَا.....

الرِّيْحُ الْمُنَزَّلُ: بَارَشٌ كَرْنَا..... كَرْنَا.....

كَرْنَا..... كَرْنَا..... كَرْنَا.....

وَمُعَقَّةٌ الْوَلَدُ وَالذَّهْدُ: وَالِدٌ كَرْنَا..... كَرْنَا.....

أَوْ شَفَقَتْ نَدِيْنَا..... كَرْنَا..... كَرْنَا.....

عَقَى وَعَافَى رَجْعًا وَعَقَّةٌ وَأَعَقَّةٌ وَأَعَقَى وَعَقَّقَى

وَعَقَّقَى.....

عَقَى (س) عَقَقَا: كَرْنَا.....

عَقَقْتُ (ض) عَقَقَا وَعَقَقَا وَعَقَقَا

الْفَرَسُ: كَرْنَا..... كَرْنَا..... كَرْنَا.....

عَافَى مُعَافَاةً أَبَاهُ: مَخَالَفَةٌ كَرْنَا.....

أَعَقَى الْكُرْمُ: كَرْنَا..... كَرْنَا..... كَرْنَا.....

كَرْنَا..... كَرْنَا..... كَرْنَا.....

أَعَقَى: وَادِيٌّ كَرْنَا..... كَرْنَا.....

: كَرْنَا..... كَرْنَا..... كَرْنَا.....

وَأَعَقَى: كَرْنَا..... كَرْنَا..... كَرْنَا.....

..... كَرْنَا..... كَرْنَا..... كَرْنَا.....

الْعَافَى: اسْمٌ فَاعِلٌ رَجْعًا عَافُونَ وَعَقَقَةٌ

وَأَعَقَّةٌ: مَوْنٌ عَافَى رَجْعًا وَعَافَاتٌ.....

الْعَقَى وَالْعَقَّةُ: كَرْنَا.....

الْعَقَى وَالْعَقَقَاتُ: مِنَ الْمَاءِ: كَرْنَا.....

الْعَقَّةُ: نَوْزٌ نَسِيدَةٌ سَيِّجٌ كَرْنَا.....

الْعَقَوِيُّ مِنَ الْخَيْلِ: كَرْنَا..... كَرْنَا.....

غَيْرٌ كَرْنَا.....

گھوڑی ج عُقْبُ ج عِقَابُ.

العُقْبُ: سرخ مہرے۔ واحد عِقْبَةٌ: وادی اور ہر پانی بہنے کی جگہ جس کو سیلاب نے وسیع کر دیا ہو ج عِقْبَةٌ: نوزائیدہ بچے کے بال۔ عرب میں چند مقامات کے نام۔

العُقْبَةُ: نوزائیدہ بچے کے بال۔ توشہ دان۔ نہر۔ بکری جو پیدائش کے ساتویں دن بال موٹتے وقت ذبح کی جائے۔ تیر جس کو زمانہ جاہلیت میں سہم الاغیڈار کہتے تھے اور خون کے بدلے کا فیصلہ کرنے کے لئے آسمان کی طرف پھینکتے تھے۔ اگر خون میں لٹ پت واپس آتا تھا تو قصاص لیتے تھے اور اگر صاف آتا تھا تو دیت پر مصالحت کر لیتے تھے۔

عِقَابُ الكرم او النخيل: شاخیں جو انگوڑی تیل یا درخت خرما کی جڑ سے نکلیں۔

عَقْب (ض ن) عَقْبًا: ایزوی مارنا۔ عَقْبُ القوس او السهم: بیچا لپیشا۔ عَقْبًا و عَقُوبًا و عاقبة الرجل او مكان الرجل: پیچھے آنا۔ جا نشین ہونا۔ کہا جاتا ہے "عَقْبُ الشَّيْب" یعنی سیاہی کے بعد سفیدی آئی۔

عَقْب عَقْبًا: ایزوی میں درد ہونا۔

عَقْبُهُ: پیچھے آنا۔ پیچھے لانا۔ عَقْبُ الصلوة: نماز پوری کر لینے کے بعد دعا وغیرہ کے لئے بیٹھا۔ کہا جاتا ہے "عَقْبُ الشَّيْب" یعنی سیاہی کے بعد سفیدی آئی۔ فسی الامر: کسی چیز کے طلب کرنے کے لئے کوشش کرنا اور آمد و رفت رکھنا۔ الحاکم علی حُکْم سلفہ: حاکم کا اپنے سلف کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کرنا۔

عَلَيْهِ: بدنام کرنا اور غلطیوں کو بیان کرنا۔

عاقبه معاقبة: پیچھے آنا۔ عاقبه في الرجلة: نوبت بنوبت سوار ہونا۔

عاقبه عاقبا ومعاقبة: بذنبه وعلی ذنبه: مواخذہ کرنا۔ سزا دینا۔ اسم العقوبة.

أعقبه: جا نشین ہونا۔ اچھا بدلہ دینا۔ عرب کہتے تھے "أعقب الرجل" یعنی بہترین

بدلہ دیا اور "عاقبته" یعنی برابر بدلہ دیا۔ عاقبه:

اچھے بدلے کو اور عَقَاب برے بدلے کو کہتے ہیں۔ أَعْقَبَهُ فِی الرَّجَالَةِ: نوبت بنوبت سوار ہونا۔ أَعْقَبَ فُلَانٌ: مرنا اور اولاد چھوڑ جانا۔ الامور: اچھا انجام ہونا۔ الرجل: برائی سے بھلائی کی طرف لوٹنا۔ أَعْقَبَتِ الارض: زمین کا چرے جانے کے بعد پھر سرسبز ہونا۔ کہا جاتا ہے "أَعْقَبَ عَزْهُ ذُلًا" یعنی اس کی عزت ذلت سے بدل گئی۔

تَعَقَّبَهُ: تلاش کرنا۔ نقائص تلاش کرنا۔ پیروی کرنا۔ جرم پر گرفت کرنا۔ تَعَقَّبَ عَنِ الخسر: شک کی وجہ سے خبر کو دوسری مرتبہ پوچھنا۔ تَعَقَّبَ مِنْ أَمْرِهِ: نادام ہونا۔

تَعَاقَبَ: الرجلان أو الليل والنهار: ایک دوسرے کے پیچھے ہونا۔ تَعَاقَبَ عَلَی الرَّجَالَةِ: نوبت بنوبت سوار ہونا۔

السقوم فی الشئ أو الامر: باری باری کرنا۔

تَعَاقَبُوا عَلَی فُلَانٍ بِالضَّرْبِ: کسی کو مارنے میں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔

إِعْتَقَبَ الْبَالِغُ السَّلْعَةَ: قیمت پر قبضہ کرنے کے لئے سامان کو روک لینا۔

الرجل: قید کرنا۔ من كذا ندامة: انجام میں ندامت اٹھانا۔ القوم علیه: مدد کرنا۔ استعقبه: عیوب و نقائص کو تلاش کرنا۔

العقب: ہر پیچھے آنے والی چیز۔

العقب والعقب: ایزوی۔ بیٹا۔ پوتا۔ ج اعقاب: أعقاب الأمور: امور کے انجام۔

کہا جاتا ہے "جاء عقیبہ وبعقبہ" جا نشین ہوا "رجع علی عقیبہ" وہ جلدی سے اسی راستے سے واپس گیا جس سے آیا تھا "وظی عقیبہ"

وہ اس کے نشان قدم پر چلا۔ "سافر علی عقیب الشهر" اس نے مینے کے آخر میں سفر کیا۔

العقب والعقب: انجام۔ نتیجہ۔ ج اعقاب.

العقب: بیچا جس سے تانت بنایا جاتا ہے۔

ج أعقاب.

العُقْبَةُ: باری۔ بدل۔ تم کہتے ہو "نمٹ عُقْبَتُک" تمہاری باری پوری ہو گئی "أخذت من آسیوی عُقْبَةً" میں نے اپنے قیدی سے بدلہ لے لیا۔ العُقْبَةُ مِنَ الْجَمَالِ: حسن کا اثر۔

العُقْبَةُ: کھانے کے بعد جو مٹھی چیز کھائی جائے۔ شوربے کا بقیہ حصہ جو ہانڈی والے کو دیا جائے۔ رات دن۔ اس لئے کہ یہ باری باری آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے "هُوَ عُقْبَةُ بَنِي فُلَانٍ" وہ بنی فلال کا آخری ہے ج عَقْبُ أَبُو عُقْبَةَ: سور۔

العُقْبَةُ: حسن کا اثر۔

العُقْبَةُ: دشوار گزار گھائی۔ پہاڑی و دشوار راستہ۔ ج عِقَاب و عَقَبَات.

السُقْبِي: کام کا بدلہ۔ ہر چیز کا آخر۔ آخرت۔

العُقُوبَةُ و العِقَاب و المعاقبة: بدی کا بدلہ۔ سزا۔

العُقَاب: ایک قوی شکاری پرندہ ج عقبان و أعقب: جع عقابین. العُقَاب: ایک ستارے کا نام۔ حوض کی طرف پانی کی تالی۔ ٹیڈ پتھر جس پر ساقی کھڑا ہوتا ہے۔

العقیب: بیرو۔ پیچھے آنے والا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ عَقْبِي" وہ اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔

العقوب: امور خیر میں بیروی کرنے والا۔ اچھا جا نشین۔

العاقب: فانا۔ نائب۔ اچھا جا نشین۔

العاقبة: مومت۔ عاقب۔ نسل۔ ہر چیز کا آخر۔ اچھا بدلہ۔ ج عواقب.

العُقْبَانُ: بمعنی عاقبت.

العُقْبَانُ: ایک شکاری پرندہ جو چوہے اور خرگوش وغیرہ کا شکار کرتا ہے اور اس کو "مُرْرَةَ" بھی کہتے ہیں۔

المُعَقَّب: ہانکنے میں ماہر۔ اوزھنی۔ بانی۔

المُعَقَّبَات: وہ عورت جس کی عادت ہو کہ ایک بار لڑکا بنے اور دوسری مرتبہ لڑکی۔ وہ

مکان جس میں خشک انگور رکھا جائے۔

المُعاقِب: فنا۔ بدلہ لینے والا۔

المُعَقَّبَات: رات دن کے فرشتے۔ تسبیحات

جو باری باری پڑھی جائیں۔

السُّعْقُوب: نزچور۔ حج یحاقب یا زائدہ

ہے۔

المُتَّقِبُولُ وَالْمُعْبُولَةُ: سختی۔ بیماری یا عداوت

کا بقیہ۔ بخار کے بعد ہونٹوں پر کی پھنسیاں

حج عقابیل۔

عَقْدٌ (ش) عَقْدًا الحِجْلُ: گرہ لگانا۔ البَيْعُ

او البَيْعُ: بیع یا قسم کو پکا کرنا۔ الحسابُ

حساب لگانا۔ ہ علی الشیء: معاہدہ کرنا

لئے الشیء: ضامن ہونا۔ الخَيْطُ:

دھاگے میں گرہ لگانا۔ البِنَاءُ: معمرا کا

محراب بنانا۔ البِنَاءُ بِالْحِصْنِ: عمارت کو

چونے سے مضبوط کرنا۔ الزُّهُرُ: پھول

کے اجزا کا جمع ہو کر پھل بن جانا۔ العَسَلُ

و نَحْوُه: شہد کا گڑھا ہونا۔ کہا جاتا ہے

"عَقْدٌ نَاصِبَةٌ" یعنی غضبناک ہوا اور برائی

کے لئے تیار ہوا۔ "عَقْدٌ غَنَقُهُ إِلَيْهِ" یعنی پناہ

لی "عَقْدٌ لَهُ الرِّئَاسَةُ فِي قَوْمِهِ" یعنی اس کو

اس کی قوم میں رئیس بنادیا "عَقْدٌ لَهُ عَلَى

النَّجِيشِ" یعنی اس کو لشکر کا سردار بنادیا۔

عَقْدٌ (س) عَقْدًا: گرہ دار زبان والا ہونا

۔ السِّبَانُ: زبان کا کرنا۔ صفت أَعْقَدُ

وعَقْدٌ۔

عَقْدٌ البَيْتُ: محراب بنانا۔ البَيْعُ: قسم

کو پکا کرنا۔ الحِجْلُ: رسی میں گرہ لگانے

میں ماخذ کرنا۔ الحِجْلَامُ: بہیم کلام کرنا

(۔ وأَعْقَدَ) الدُّبْسُ و نَحْوُه: شیرہ کو

جوش دے کر گڑھا کرنا۔

عَاقِدَةٌ مُعَاقِدَةٌ: معاہدہ کرنا۔

تَعَقَّدَ الدُّبْسُ: شیرہ کا گڑھا ہونا۔

الرَّمْلُ: ریت کا تہہ ہونا۔ السَّحَابُ:

بادل کا محراب کے مانند ہونا۔ الأَمْرُ:

دشوار ہونا۔ الإخَاءُ: مضبوط ہونا۔

أَعْقَدُ: گرہ لگانا۔ الأَمْرُ لِفُلَانٍ: خالص ہونا

..... الدُّبْسُ: شیرہ کا گڑھا ہونا الزُّهُرُ:

پھول کے اجزاء کا جمع ہو کر پھل بن جانا۔

تَعَاقَدَ القَوْمُ: ایک دوسرے کے ساتھ

معاہدہ کرنا۔

أَعْتَقَدَ المَالُ: جمع کرنا۔ الأَمْرُ: تصدیق

کرنا۔ نہایت پختہ یقین رکھنا۔ دین بنانا۔

الشَّيْءُ: سخت ہونا اور اسی سے ہے "أَعْتَقَدَ

السَّنْوَى" جبکہ کھٹلی سخت ہو جائے الإخَاءُ

بَيْنَهُمَا: سچی ہونا۔ ثابت ہونا۔ ہاندھنا الدرُّ

و نَحْوُه: موٹی وغیرہ کے پار بنانا۔

العَقْدُ: محراب حج اعقادات و عقود اور اعداد

کے عقود دہائیوں کو کہتے ہیں جیسے دس

ہیں تیس نوے تک۔

العَقْدُ: ہار حج عُقُودُ۔

العَقْدُ وَالْعَقْدُ: ریت کا ڈھیر واحد العَقْدَةُ

و العَقْدَةُ۔

العُقْدَةُ: گرہ۔ جائیداد۔ شہر کی حکومت

حاکموں کی بیعت۔ مِّن كُلِّ شَيْءٍ: ہر چیز

کی مضبوطی۔ اتنی مقدار جو آدی کو کافی ہو۔

بہت درختوں والی جگہ۔ جو کسی چیز کو روک

لے اور باندھ لے۔ کہا جاتا ہے "تَحَلَّلْتُ

عُقْدُهُ" یعنی اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔

العَاقِدُ: فنا۔ حج عَقْدَةُ کہا جاتا ہے "جَاءَ

عَاقِدًا غُنْقُهُ" تکبر سے گردن موڑنا ہوا آیا۔

العَاقِدَةُ: مؤنث عَاقِدٌ۔ حج عَاقِدٌ

و عَاقِدَاتُ العَاقِدَاتُ: جاودہ گرنیاں۔

العَقْدَةُ: زبان کی جڑ۔

العَقْدَادُ: بہت عقید کرنے والا۔ دھاگر اور

گھنڈی کا بنانے والا اور بیچنے والا۔

العَقَادَةُ: دھاگر گھنڈی بنانے کا پیشہ۔

العَقِيدُ: معاہدہ کرنے والا۔ مِّن الدُّبْسِ:

گاڑھا شیرہ۔ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ عَقِيدٌ

الْكُومِ أَوْ اللُّومِ" یعنی فلاں آدی طبعاً کریم یا

لیتم ہے۔

العَقِيدَةُ: جس پر پختہ یقین کیا جائے جس کو

انسان اپنا دین بنائے اور اس کا اعتقاد

رکھے۔ حج عقائد۔

..... الأَعْقَدُ: وہ شخص جس کی زبان میں گرہ ہو۔

جس میں گرہیں ہوں۔ کتا یا بھیڑ یا جس کی

دم مزی ہوئی ہو۔ مؤنث عَقْدَاءُ: حج عقد۔

العُقُودُ وَالْعِنْقَادُ مِنَ العِبِّ و نَحْوُه:

گچھا۔ حج عَنَاقِدُ۔

السَّعْقِدُ: گرہ بندھنے کی جگہ۔ جوڑ۔ کہا جاتا

ہے "هُوَ يَمْنَى مَعْقِدُ الأَزَارِ" یعنی وہ مرتبہ

کے لحاظ سے مجھ سے قریب ہے حج مَعَاقِدُ۔

السَّعَاقِدُ: وہ منازل جہاں بار بار لوٹ لوٹ

کر آئیں۔

المُعَقَّدُ: بچوں کے گلے میں ڈالنے کے لئے

تعویذ وغیرہ کی لڑی۔

المُعَقَّدُ: فنا۔ جا دو گر۔

المُعْتَقَدُ: اعتقاد جس کا انسان اعتقاد

کرے۔

عَقْرُه (ش) عَقْرًا: زخمی کرنا۔ ذبح کرنا۔

عَقْرَ الأَبْلِ: کو نہیں کاٹنا۔ عَقْرَبُه: جلنے سے

روک دینا۔ بالصَّيْدِ: شکار کے پیچھے لگانا۔

عَقْرَاتُ (ش) عَقْرًا وَعَقْرًا: عَقْرَاتُ

عَقْرَاتُ (ك) عَقْرًا وَعَقْرًا: عَقْرَاتُ

عَقْرَاتُ العِمْرَةِ: المرأة أو الناقة: بانجھ ہونا۔

صفت العَاقِرُ۔

عَقْرٌ (ك) عَقْرًا: الأَمْرُ: بے نتیجہ ہونا۔

عَقْرٌ (س) عَقْرًا: دہشت زدہ ہونا۔ متحیر

ہونا کا پناہ۔

عَقْرٌ الأَبْلِ: اونٹ کو بہت زخمی کرنا۔

عَاقِرٌ مُعَاقِرَةٌ: الشَّيْءُ: لازم پکڑنا۔ پھٹکی کرنا

..... الخَمْرُ: شراب پینے میں مداومت کرنا

..... ہ: گالی دینا۔ برا بھلا کہنا۔ جھو کرنا۔

اونٹ ذبح کرنے میں نخر کرنا۔

أَعْقَرَهُ: دہشت زدہ کرنا۔ أَعْقَرَ اللِّه

الْمَرْأَةُ: عورت کو بانجھ کر دینا۔

تَعَقَّرَ النَّبَاتُ: نباتات کا لہبا ہونا۔ شَحْمُ

النَّاقَةِ: چربی کا گٹھا ہوا ہونا۔ السَّرْجُلُ:

جائیداد زیادہ ہونا۔ العَيْثُ: لگا تار بارش

ہونا (.....) وَأَعْتَقَرَ وَأَنْعَقَرَ: ظَهَرَ الذُّبْيُ مِنَ

الرَّجْلِ أَوْ السَّرْجِ: کچا دیا زین سے جانور

کی پیڑھ کا زخمی ہونا۔ انْعَقَرَتْ قَوَائِمُ الْبَيْبَرِ :
کوچھیں کٹ جانا۔

تَعَاقَرُ الرَّأعِيَانِ : اونٹ کے ذبح کرنے میں
مقابلہ کرنا۔

العُقْرُ : گھر کا درمیانی حصہ۔ محلہ۔ قوم۔ بلند
عمارت اترنے کی جگہ۔ دو چیزوں کے
درمیان کشادگی۔

العُقْرُ : عورت کا مہر۔ قوم کے اترنے کی
جگہ۔ حوض کا پھیلا حصہ۔ گھر کا درمیانی
حصہ۔ گھر میں عمدہ جگہ۔ بہترین گھاس۔
قصيدے کا بہتر شعر۔ محل۔ ج. انْعَقَارُ. بِيضَةُ
العُقْرِ : مرغی کا پہلا انڈا۔ العُقْرُ : بانجھ (.....)
والعُقْرُ : بڑی آگ۔

العُقْرَةُ وَالْمُعْقَرَةُ وَالْعَقَارَةُ : بانجھ پن۔

العُقْرَاءُ : مؤنث الاْعُقْرُ : اونچا ٹیلہ۔

العُقَارُ : گھر کا سامان۔ جائیداد کا ہر غیر منقول
چیز۔ سرخ رنگ ج عقارات۔

العُقَارُ : گھر کا سامان۔ عمدہ مال۔ بہترین
گھاس۔ شراب۔

العُقْرُ وَالْمُعْقَرَةُ وَالْمِعْقَرُ : جانوروں کو تھکا کر
زخمی کرنے والا۔ امْرَاةٌ عَقْرَةٌ : رحم کی بیماری
والی عورت۔

العُقَارُ : بہت زخمی کرنے والا۔ درخت۔
بڑی بوٹی سے علاج کرنے والا۔ دوا۔ ج
عقائیر۔

العُقَيْرُ : سینہ مالخ۔ درخت۔

العُقُورُ : کات کھانے والا جانور ج عُقْرُ.

السُّعْفَرَةُ وَالْعَاقُورُ وَالْمِعْقَرُ وَالْمِعْقَارُ
وَالْمُعْقَرُ : مِنَ السَّرُوجِ : پیڑھ کو زخمی کرنے
والی زین۔

العُقَيْرُ : زخمی۔ وہشت زدہ ج عُقْرِي.

رَجُلٌ عَقِيرٌ : بے اولاد مرد۔

السُّعْفَرَةُ : زخمی شکار۔ کئی ہوئی پتلی۔ گانے
والے یا رونے والے یا پڑھنے والے کی

آواز۔ کہا جاتا ہے "رَفَعَ عَقِيرَتَهُ" آواز بلند
کی سَخْلَةُ عَقِيرَةٌ : کٹے ہوئے سر کا درخت

خراب۔

العَاقِرُ : بانجھ عورت ج عُقْرٌ وَعَوَاقِرُ.
رَجُلٌ عَاقِرٌ : بے اولاد مرد ج عُقْرُ.

الاعقر : اونٹ جس کے دانت ٹوٹ گئے ہوں
مؤنث عُقْرَاءُ ج عُقْرُ.

العُقْرِي : جائیداد۔

المُعْقِرُ : بہت جائیداد والا۔

أَرْضٌ مُعْقَرَةٌ : بہت بچھوڑوں والی زمین۔

العُقْرَبُ : بچھو۔ نرمادہ دونوں پر اطلاق ہوتا
ہے اور غالب تانیث ہے۔ اُمٌّ عَرِيْطٌ اَوْ اُمٌّ
سَاهِرَةٌ کنیت ہے اور کہا جاتا ہے کہ زکو
عقربان کہتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ
مادہ کو عُقْرَبَةٌ کہتے ہیں۔ ج. عَقَارِبُ.

العُقْرَبُ : آسمان کے ایک برج کا نام۔

العُقَارِبُ : سختیاں۔ چھلیاں۔ کہا جاتا ہے

ذَبْتُ عَقَارِبُهُ. وَذَبْتُ مِنْهُ عَقَارِبُ

السَّعَايَةِ وَاِنَّهُ لَتَذِبُ عَقَارِيَةً، یعنی وہ لوگوں

کی بے آبروئی کرتا ہے۔ عَيْشٌ ذُو

عَقَارِبُ : بختی دنگی کی زندگی۔ عَقَارِبُ

السَّيَاحَةِ : شُذُكٌ كِي حَتَّى عَقْرَبُ السَّاعَةِ :

گھڑی کی سوئی۔

العُقْرَبَاءُ : مادہ بچھو۔

أَرْضٌ مُعْقَرَبَةٌ : بہت بچھوڑوں والی زمین۔

المُعْقَرَبُ : موڑا ہوا۔ ٹیزھا۔ گٹھا ہوا

مضبوط جسم۔ کال مددگار۔

العُقْرَطَلُ وَالْعِبْقُرْطَلُ : مادہ ہاتھی۔ ہتھی۔

عُقَشُ (ن) عَقَشَا. العُقْدُ : لکڑی کو موڑنا

..... المالُ : جمع کرنا۔

عُقَصُ (ض) عَقَصَا. الشُّعْرُ : بالوں کی

چوٹی بنانا یا گوندھنا..... السَّمْرَةُ شَعْرَهَا :

عورت کا جوڑا ہانڈھنا۔

عُقِصَ (س) عَقِصَا. النَّيْسُ : مینڈھے کا

پیچھے مڑے ہوئے سینگوں والا ہونا.....

الرَّجُلُ : بخیل ہونا۔ بدخلق ہونا۔ مڑی ہوئی

انگلی والا ہونا۔

العُقِصُ : بخیل۔ بدخلق۔ جمع شدہ ریت جس

میں راستہ نہ ہو۔

کی گہرہ عُقْصُ.

العُقِصَةُ : چوٹی ج عُقْصُ وَعُقَاصُ.

العُقِصَةُ : چوٹی ج عُقَانِصُ وَعُقَاصُ.

العُقَاصُ : سوبان ج عُقْصُ.

الاعْقِصُ : وہ شخص جس کی انگلیاں مڑی ہوئی

ہوں۔ جس کے دوا گئے دانت اندر کو گھسے

ہوئے ہوں۔ بخیل..... مِنَ النَّيْسِ :

مینڈھا جس کے سینگ پیچھے کو مڑے ہوئے

ہوں۔ مؤنث عُقْصَاءُ ج عُقْصُ.

المِعْقِصُ : ٹیزھا تیر۔ ج. مَعَاقِصُ.

المِعْقَاصُ : مڑے ہوئے سینگ کی بھیڑ

بکری۔

عَقَفَقَ عَقْفَقَةَ الطَّائِرِ بَصُوْبِهِ : بھگری کرنا۔

العُقْفُقُ : کتے کی شکل کا ایک پرندہ۔ کوا۔

عوام اسے قفق کہتے ہیں اور عرب اس سے

بدفالی لیا کرتے تھے۔

عَقَفَ (ض) عَقَفَا وَعَقَفَ العُقْدُ وَنَحْوَهُ

: فَتَعَقَفَ وَانْعَقَفَ : کنارے سے موڑنا اور

ٹیزھا کرنا۔ پس مڑ جانا اور ٹیزھا ہو جانا۔

صفت اَعْقَفَ وَمَعْقُوفٌ.

العُقْفَاءُ : مؤنث اعقف : لکڑی یا الوہا جس

کے کنارے پر کچی ہو مڑے ہوئے سینگ کی

بکری ج عُقْفُفٌ (.....) وَالْعُقْفِيَاءُ : ایک

گھاس ہے جس سے بکریاں مرجاتی ہیں۔

العُقُوفُ : مِنَ ضَرْوَعِ البَقْرِ : گائے کا تھن

کہ دو تپے وقت دودھ سیدھا نہ نکلے۔

العُقْفَافُ : بکریوں کا ایک مرض جس سے

ٹانگیں ٹیزھی ہو جاتی ہیں ایسی بکری کو عاقف

کہتے ہیں اور اس کی جمع عواقف ہے۔

العُقْفَافُ : لکڑی جس کے ایک طرف کچی ہو

شَوْكَةٌ عَقْفِيَّةٌ : مڑا ہوا کانٹا۔

المَعْقُوفُ : مڑا ہوا۔ وہ جانور جس کو عَقْفَافُ

کی بیماری ہو۔ شَيْخٌ مَعْقُوفٌ : خمیدہ کمر

بڑھا۔

عَقَلَ (ن ض) عَقَلًا. الدَّوَاءُ يَطْنُهُ : دوا کا

قبض کر دینا..... البَعِيْرُ : ٹانگ ران ملا کر

رسی سے باندھنا..... السَّمْرَةُ شَعْرَهَا :

بالوں میں ننگھا کرنا..... القَيْبِلُ: مقبول کی
دیت ادا کرنا..... عَنْ فُلَانٍ: کسی کی جانب
سے تاوان یا دیت ادا کرنا..... لَهُ ذَمُّ فُلَانٍ:
دیت پر راضی ہو جانا اور قصاص کو چھوڑ دینا۔
عَقَلَ (ض) عَقْلًا وَمَعْقُولًا الْغُلَامُ: لڑکے
کا سمجھدار ہونا۔ دانا ہونا..... فُلَانٌ بَسَمَ
الصَّبَا: فطنی کو پہچان لینا..... عَقْلًا الشَّيْءُ
: سمجھنا۔ تدبیر کرنا۔ صفت عاقل۔ ج عاقلون
وعقلاء وعقائل: صفت مؤنث عاقلة ج
عاقلات وعواقل۔
عَقَلَ (ض) عَقْلًا وَعَقُولًا الْمَضَارِعُ
خَصْمَهُ: ٹانگ میں ٹانگ پھنسا کر گرانا.....
الْوَعْلُ: بلند پہاڑ پر چڑھ جانا اور محفوظ ہو
جانا۔ إِلَيْهِ: پناہ لینا۔
عَقَلَ (س) عَقْلًا: التَّبَعِيُّ: اونٹ کا ٹیڑھی
ٹانگوں والا ہونا۔ صفت أعقل: مؤنث عقلاء
ج عقيل۔
عَقَلَ الْغُلَامُ: لڑکے کا عقل مند ہونا۔ الْغُلَامُ
لڑکے کو عقل مند بنانا..... التَّبَعِيُّ: اونٹ کی
ٹانگ ران ملا کر باندھنا..... الرَّجُلُ عَنْ
حاجبته: روک دینا۔
عَاقَلَهُ مُعَاقَلَةً: سمجھ بوجھ میں متاثر کرنا۔
أَعَقَلَهُ: عقل مند پانا۔ أَعْقَلَ الرَّجُلُ: سال
کی زکوٰۃ واجب ہونا۔
تَعَقَّلَ الْغُلَامُ: لڑکے کا سمجھدار ہونا۔ جتکلف
عقل مند بننا۔ تَعَقَّلَهُ: منع کرنا۔ روکنا۔ تَعَقَّلَ
الرَّجُلُ: پاؤں موڑ کر سرین پر رکھنا
..... الرَّجُلُ أَوْ السَّرْجُ: کجاوہ یا زین پر
پاؤں موڑ کر رکھنا۔
تَعَاقَلَ: جتکلف نظر مند بننا۔ تَعَاقَلُوا ذَمَّ الْقَيْبِلِ
: دیت کے ادا کرنے میں شریک ہونا۔
أَعْتَقَلَ الرُّمْحَ: نیزہ کو رکاب اور پتھڑی کے
درمیان رکھنا..... التَّبَعِيُّ: اونٹ کی ٹانگ
ران ملا کر باندھنا..... الرَّجُلُ أَوْ السَّرْجُ:
کجاوہ یا زین پر پاؤں موڑ کر رکھنا..... مِنْ ذَمِّ
فُلَانٍ: دیت لینا..... النَّوَاءُ بَطْنُهُ: دوا کا
قبض کرنا۔ الرَّجُلُ: پاؤں موڑ کر سرین پر

رکھنا۔ أَعْتَقَلَهُ: روکنا۔ ٹانگ میں ٹانگ لگا
کر پچھاڑنا..... الشَّاةُ: بکری کی ٹانگ کو اپنی
ران اور پتھڑی کے درمیان دبا کر دوہنا۔
أَعْتَقَلَ: لِسَانُهُ: زبان بند ہو جانا۔
الْعُقْلُ: روحانی نور جس سے غیر محسوس
چیزوں کا ادراک ہوتا ہے۔ دل۔ دیت ج
عُقُول۔
التَّعْقِيلِيُّ: عقل کی طرف نسبت جس میں حس
باطنی کو دخل نہ ہو۔
العُقْلَةُ: زبان کی روک۔
العُقْلَةُ: جس سے باندھا جائے ج عُقْلُ
العُقَالُ: ری جس سے اونٹ کے زانو کو
باندھا جائے۔ سر پر باندھنے کی ری۔
العُقَالُ: اونٹ یا بکری کی ایک سال کی
زکوٰۃ۔ کہا جاتا ہے "أَذْيْتُ عِقَالٍ سَنَةٍ" یعنی
ایک سال کی زکوٰۃ میں نے ادا کر دی۔
عِقَالُ الْمَيْتِينَ: وہ شریف جو قید کیا جائے تو دو
سوانٹوں کا فدیہ ادا کرے۔
العَاقِلُ: فاجحہ دار ج عُقْلَاءَ وَعَاقِلُونَ
وعُقَالٌ اور عورت کو بھی عاقل کہا جاتا ہے
العَاقِلُ: پہاڑی بکری دیت ادا کرنے والا۔ ج
عَاقِلُهُ۔
العَاقِلَةُ: مؤنث عاقل: سمجھنے کی قوت۔
عَاقِلَةُ الرَّجُلِ: باپ کی طرف کے رشتہ دار۔
العُقُولُ: سمجھدار۔ قابض دوا۔
العُقَيْلُ: مقبول۔
العَاقُولُ: دریا کا بڑا حصہ۔ موج۔ وادی یا
نہر کا موڑ۔ بے نشان زمین۔ مبہم امور۔ ج
عَوَاقِلُ۔
العُقَالُ: جانوروں کی ٹانگ کی بیماری۔
العُقَيْلَةُ: مِنَ النِّسَاءِ: شریف پردہ نشین
عورت..... مِنْ الْإِبِلِ: عمدہ قسم کے اونٹ
..... مِنْ الْقَوْمِ: سردار..... مِنْ كُلِّ شَيْءٍ:
ہر چیز کا عمدہ حصہ۔ عقيلة البحر: مولیٰ ج
عُقَائِلُ۔
المَعْقِلُ: جائے پناہ۔ اونٹ باندھنے کی جگہ۔
بلند پہاڑ ج معاقيل۔

السَّمْعُقْلَةُ: خون بہا۔ تاوان۔ کہا جاتا ہے
"صَارَ ذَمُّهُ مَعْقَلَةً. عَلِيٌّ قَوْمِيه" یعنی اس کا
خون تاوان ہو گیا جس کو ہر سال ادا کرتے
ہیں۔ ج معاقيل۔
السَّمْعُقُولُ: سمجھا ہوا۔ عقل ج معقولات۔
عِلْمُ الْمَعْقُولَاتِ: وہ علم جس میں عقلی
چیزوں سے بحث کی جائے۔
عُقْمَتْ (ن) عَقْمًا وَعُقْمًا
وَعُقْمَتْ (ك) عَقْمًا وَعُقْمَتْ (س)
عَقْمًا وَعُقِمَتْ عَقْمًا وَعُقْمًا.
السَّرَاةُ أَوْ الرَّحْمُ: بانجھ ہونا۔ صفت عقيمہ.
عُقِمَتْ مُفَاصِلُهُ: جوڑوں کا خشک ہونا۔
عُقِمَ (س) عَقْمًا: خاموش ہونا۔
عَقَمَ (ض) عَقْمًا وَأَعَقَمَ وَعَقَمَ اللَّهُ
السَّرَاةَ: بانجھ کرنا۔ عَقَمَهُ: خاموش کرنا۔
عَقَمَ الشَّيْءَ: جراثیم کو مار دینا۔
عَاقَمَهُ مُعَاقِمَةً: جھگڑا کرنا۔ خصومت کرنا۔
گالی دینا۔
أَعَقَمَ إِلَيْهِ: آنا جانا..... فِي الْأَمْرِ: دخل
دینا۔
العُقْمُ وَالْعُقْمَةُ وَالْعُقْمَةُ: سرخ کپڑا۔ نقش
و نگار کی ایک قسم۔
السَّرَاةُ الْعَقِيمَةُ: بانجھ عورت ج عَقَائِمُ
وَعُقْمُ۔
الرَّجُلُ الْعَقِيمُ: بے اولاد مرد ج عَقْمَاءُ
وَعَقَامٌ وَعَقْمِي. عقل عقيمہ: عقل جس میں
کوئی خیر نہ ہو۔
حَسْرَةُ عَقِيمٍ: بخت لڑائی۔ کہا جاتا ہے
"الدُّنْيَا عَقِيمٌ" یعنی دنیا بے برکت ہے۔
حَسْرَةُ عَقَامٍ وَعَقَامٌ: بخت لڑائی۔ ذاء
عَقَامٌ: لا علاج مرض۔ يَوْمَ عَقَامٍ: بخت دن۔
العَقَامُ: بے اولاد۔ بدخلق۔
العَقِيمَةُ: مِنَ الْأَرْحَامِ: بانجھ۔ ج عَقَائِمُ۔
العُقْمِيُّ وَالْعُقْمِيُّ مِنَ الْكَلَامِ: پوشیدہ
کلام۔
العُقْمِيُّ: خاندانی شرافت والا۔
السَّمْعُقِمُ: ہڈیوں کا جوڑ۔ ریڑھ کی ہڈی کے

مہرے ج معاقبہ معاقبہ الخیل: گھوڑے کے جوڑے۔

المفقوم: من الرجال: بے اولاد۔

عقبا یعقوا عقوا واعتقی اغتقاء: کنواں کھودنا اور ایک جانب سے سوت نکالنا۔ عقفا العلم: جھنڈا بلند ہونا۔ عقفا الأمر: مکروہ جاننا۔ فلانا: روکنا واعتقی الرجل: رکتا۔ عقفا وغافا: روکتا۔

العقوة: گھر کا ارد گرد۔ میدان۔ محلہ ج عقاء۔

عقسی یعقیا عقیا. الأمر: مکروہ جاننا (..... وعقسی) الولد: بچے کو کھٹی پانا۔ عقسی الطائر: اڑنے میں بلند ہونا۔

أعقیا اغقاء: کڑوا ہونا۔ الشیء: مکروہ جاننا۔

العقی: نوزائیدہ بچے کا پاجانہ ج اغقاء۔ العقیان: خالص سونا۔

عک (نض) عکاً اليوم: سخت گرمی مح گھسن کے ہونا۔ صفت عک و عکک۔

عکة الحمی: لگا تار بخار ہونا۔ الرجل: حق کا نال مول کرنا عک عن حاجتہ باز رکنا۔ ہ بالسخیة: مغلوب کرنا۔ ہ

بالأمر أو بالقول: بار بار بات کہہ کے تھکا دینا۔ ہ بالوسط: کوڑے سے مارنا۔ ہ

بشیر: بار بار کرنا۔ الکلام: وضاحت کرنا۔

عک: گرمی سے جوش مارنا۔ الرجل: سخت بخار چڑھنا۔

عاکمہ: علیہ مائل کرانا۔

العکة والعکة والعکة والعکاک والعکیک: گھسن کے ساتھ سخت گرمی۔

العکة والعکة: تیز بخار۔ گرم ریت۔ العکة: گھی کا ڈبرج عکک و عکاک اور اسی سے ہے سمن الصبی حتی صار کالعکة

: بچہ مونا ہوا یہاں تک کہ مانند بے کے ہو گیا۔ لیلۃ عکة: سخت گرمی والی رات۔ یوم عکیک: سخت گرم دن ج عکاک۔

عکبت (ن) عکوبنا الإنیل: اونٹوں کا بھیڑ کرنا۔

..... القدر: ہانڈی کا جوش مارنا۔ عکب الرجل: بھرنے۔

عکب (س) عکبا: موٹے ہونٹ اور جڑے والا ہونا۔ بیکر کی قریب قریب انگلی والا ہونا۔ صفت عکب: مونت عکباء ج عکب۔

عکبت النار: دھوئیں والی آگ ہونا۔ تعکبتہ: الہموم: بھگرات اور غموں کا هجوم کرنا۔

إعکب: الغبار: غبار ائمتنا۔ الغبار: غبار اڑانا۔ المكان: غبار والا ہونا۔ الإبل: کسی جگہ میں جمع ہونا اور غبار اڑانا۔

العکب والعکوب والعکاب: غبار۔ العکاب: ہانڈی کی بھاپ۔

العکب: فنا۔ بھیڑ۔ انبوج عکوب۔ الاغکب والعکاب والعکب: عنکبوت

: بمعنی کڑی کا اسم جمع۔ العکوب: غبار۔ ایک قسم کی خاردار بھری

بکچی اور پکی دونوں طرح سے کھائی جاتی ہے۔

العکبر: ایک چیز جس کو شہد کی کھی اپنے بازو وغیرہ پر لگا کر لاتی ہے اور اس کو شہد کی جگہ میں رکھتی ہے۔

عکبنة: مضبوط ہاندھنا۔ تعکبش: فیہ الغضن: بھنی کے کانٹے چھینا۔

عکذ (ض) عکذا وأعکذ الیہ: پناہ لینا۔ عکذ الأمر فلانا: ممکن ہونا۔

عکذ (س) عکذا: الضب: بچو کا مونا ہونا۔ صفت عکذ۔

عکذبه واعتکذہ: لازم ہونا۔ استعکذ الضب: بچو کا مونا ہونا۔ الماء: پانی کا جمع ہونا۔

عکذ الشیء: چیز کا درمیان۔ کہا جاتا ہے

عکذک هذا الأمر: یعنی فلاں امر تمہارے لئے ناپائید ہے۔

العکسة: دفترہ کی ہڈی۔ قوت گورہ کا سوراخ۔

عکذة اللسان: زبان کی جڑ۔ عکوز (نض) عکوزا وعکوزا علیہ: حملہ کرنا۔ پھرنا۔ مزنا۔ مائل ہونا۔ کہا جاتا ہے

”عکوز علیہ الزمان بخیر“: زمانہ اس پر خیر و برکت کے ساتھ مائل ہوا۔

عکوز (س) عکوزا: الماء ونحوہ: پانی کا گدلا ہونا۔ صفت عکوز۔

عکوز وأعکوز الماء: پانی کو گدلا کرنا۔ وأعکوز اللیل: رات کا سخت تاریک ہونا۔

أعکوز الرجل: مرد کا دوبارہ حملہ کرنا۔ إعکوز: علیہ حملہ کرنا۔ اللیل: رات کا سخت تاریک ہونا۔ المنظر: سخت بارش

ہونا۔ إعکوزت الریح: ہوا کا غبار اڑانا (.....) وتعاکرت القوم فی الحرب: گھسان کی جنگ کرنا۔

العکوز: تلوار کا مورچہ۔ من کل شیء: تلچھٹ۔

العکبر: اصل۔ جڑ۔ کہا جاتا ہے ”زجع فلان الی عکبرہ“ یعنی فلاں اپنی اصل کی طرف لوٹ گیا۔ عادت۔

العکرة والمعکوز: بھاگنے کے بعد دوبارہ حملہ۔

العکرة: اونٹوں کا گلہ۔ زبان کی جڑ ج عکوز: اختلاط والتباس۔ کہا جاتا ہے ”وقعوا فی عکرة“ یعنی وہ گڑبڑی میں پڑ گئے۔

العکار: بہت زیادہ حملہ کرنے والا۔ غلام عکرة: مونا تازہ لڑکا۔

العکرة: خرگوش مادہ۔ عکرم اللیل: رات کی تاریکی۔ عکرة: معروف بحالت۔ علم اور العکرة: کبوتری یا

مادہ قمری۔ عکوز (ن) عکوزا: الریح: نیزہ گاڑنا۔ بالشیء: راست پانا (.....) وتعکوز علی

عُكَّازِيَه: ڈنڈے پر سہارا لینا۔ تَعَكَّزُ قَوْمَه
کمان کو سہارا بنانا۔

عَكَّزَ (س) عَكَّزًا: سگڑنا۔

عَكَّزَ الزُّمَحَ: نیزے میں پھل لگانا۔

الْبَعِزُّ: بخیل۔ بدخلق۔

الْمُعَاذَ: وَالْمُعَاذَةُ: ڈنڈا جس میں نیچے پھل
لگا ہوا ہوجے گا کیجئے و عُكَّازَاتُ
الْعُكَّازِيَلِ: شیر کا بچہ۔

عَكَّسَ (ض) عَكَّسًا الْكَلَامَ وَنَحْوَهُ:
کلام کو الٹ دینا۔ الشَّيْءُ: آخرو کو الٹ کی

طرف کر دینا۔ زمین کی طرف جھکا دے کر
کھینچنا اور پٹک دینا۔ الْبَعِيْرُ: اونٹ کو ٹیکل لگا

کر رہی کو ٹانگ سے باندھ دینا۔ رَأْسُ
الْبَعِيْرِ: اونٹ کے سر کو موڑنا۔ عَنِ

الْأَمْرِ: پھیر دینا۔ ہٹا دینا۔ عَالِي فُلَانٍ
أَمْرُهُ: کسی کے معاملہ کو اسی پر لوٹا دینا۔

الطَّعَامَ: کھانے میں دودھ ملا ہوا شوربا ڈالنا۔
عَكَّسَ (س) عَكَّسًا: تنگ خوبونا۔

عَاكَسَ مُعَاكَسَةً وَعَكَّاسًا الْكَلَامَ: کلام کو
پلٹ دینا۔ ع: ایک دوسرے کی پیشانی کو

پکڑنا اور عوام کے استعمال میں بمعنی مخالفت
کرنا۔

تَعَكَّسَ فِي مَشِيَّتِهِ: ریگ کر چلنا۔
تَعَاكَسَ وَاعْتَكَسَ وَانْعَكَسَ: پلٹ جانا۔

إِعْتَكَسَ: دودھ ملا ہوا شوربا بنانا۔
عَكَّاسُ الْبَعِيْرِ: ٹیکل کی رسی جو اونٹ کے

زانو میں باندھ دیتے ہیں۔
عَكَّسَ الْقَضِيَّةَ: دوسرا قضیہ معکوس۔

التَّعَاكُسُ: علم ہیئت میں نقات کو معکوس کرنا۔
الْإِنْعِكَاسُ: شعاع صغوی کو الٹ کرنا جیسے

آئینہ کے منہ کو الٹ کرنا اور ساکن پانی کی سطح
کو۔

الْمُنْعَكُوسُ: علم حساب میں عدد کو متقلب
کرنا۔

الْفُكَّاسُ: زکریٰ۔
العكيس: دودھ جو شوربے میں ملایا جاتا

ہے۔ رسی جس سے اونٹ کو روکتے ہیں۔

درخت کی شاخ جس کو زمین کے نیچے دبا
دیتے ہیں کہ اس سے دوسرا درخت نکلتا

ہے۔

الْعَكِيْسَةُ: بہت سے اونٹ۔ تاریک

رات۔ عَكِشَ (س) عَكَّشًا:

الشَّعْرُ: بالوں کا پیچیدہ اور تہ تہ ہونا۔
النَّبْتُ: نباتات کا بہت ہونا اور گنجان ہونا۔

عَكَّشَ (ض) عَكَّشًا الشَّيْءَ: جمع کرنا۔
صفت عَكِشَ: صفت مفعولی معکوش۔

الرَّجُلُ: مضبوط باندھنا۔ عَلَيْهِ: حملہ کرنا۔
تَعَكَّشَ الْأَمْرَ: دشوار ہونا۔ الشَّيْءَ: سگڑنا

..... الشَّعْرَ: بالوں کا پیچیدہ اور تہ تہ ہونا۔
العكش: بمن الشعر: پیچیدہ اور تہ تہ

بال۔ بیکار و فضول آدمی۔ شَجَرَةٌ عَكِشَةٌ:
بہت زیادہ شاخ دار گنجان درخت۔

الْفُكَّاشُ وَالْعُكَّاشُ وَالْمُعَاكَاةُ
الْمُعَاكَاةُ: کڑی یا کڑی کا چالا۔

عَكَّصَهُ (س) عَكَّصًا عَنِ حَاجَتِهِ: ہٹانا۔
پھیر دینا۔

عَكَّصَ (س) عَكَّصًا: بد خوبونا۔ صفت
عَكَّصَ عَكَّصَتِ الدَّابَّةِ: سر کٹنی کرنا۔

تَعَكَّصَ بَكْدًا عَلَيْهِ: بخل کرنا۔
زَمَلَةٌ عَكِصَةٌ: دشوار گزار تودہ ریت۔

عَكَّظَهُ (ض) عَكَّظًا: مغلوب کرنا۔ فخر کو رو
کر دینا۔ رَوَّكْنَا..... الشَّيْءَ: رگڑنا۔

الادبیم: چیزے کو دباغت کے لئے رگڑنا۔
عَكَّظَ بِالشَّيْءِ: فخر کرنا۔ عَكَّظَهُ وَعَكَّظَتَهُ

عَنِ حَاجَتِهِ: ہٹانا۔ پھیر دینا۔
عَاكِظَةٌ مُعَاكِظَةٌ: نال دینا۔

تَعَكَّظَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ: دشوار ہونا۔ الْقَوْمُ:
اجتماع کرنا۔ بھیز کرنا۔

تَعَاكَظَ الْقَوْمُ: مقابلہ کرنا۔ آپس میں فخر
کرنا۔ جھگڑا کرنا۔

العكظ والعكيط: چھوٹے قد والا۔
عُكَّظَ: عرب کے ایک بازار کا نام تھا جس

میں عرب کے قبائل جمع ہوا کرتے اور بیچ و
فروخت کرتے تھے اور مفاخرت کے اشعار

پڑھا کرتے تھے (نذکرہ مؤنث ہے)

عَكَّفَهُ (ن ض) عَكَّفًا عَنِ الْأَمْرِ: منع کرنا

..... عَالِي الْأَمْرِ: کسی چیز پر روک رکھنا۔
(..... عَكَّفًا وَعَكَّفًا) الْقَوْمَ حَوْلَهُ وَبِهِ:

گردا گرد چکر لگانا۔ عَكَّفَ عَالِي الْأَمْرِ:
ہمیشہ لازم رہنا (..... وَاعْتَكَّفَ وَتَعَكَّفَ)

فِي الْمَكَانِ: بند رہنا۔
عَكَّفَ الْجَوْهَرَ: تہ تہ رکھنا..... الشَّعْرَ:

بالوں کو ہنگڑا لاکرنا..... عَنِ كَذَا: روکنا۔
منع کرنا۔

عَاكِفَةٌ مُعَاكِفَةٌ: لازم رہنا۔
العكيف من الشعر: ہنگڑا یا لے بال۔

العاكف: فاقم۔ مع عاكفون وعكف
وعكوف شعور معكوف: کٹھی چوٹی کے

ہوئے بال۔
المُعَكَّفُ: منع۔ مڑا ہوا۔ مڑھا۔

عَكَّلَ (ن ض) عَكَّلًا الشَّيْءَ: بکھرنے کے
بعد اکٹھا کرنا..... الْمَتَاعُ: سامان تہ تہ

رکھنا۔ الرَّجُلُ: پچھاڑنا..... الْبَعِيْرُ: اونٹ کو
رسی سے باز اور پاؤں ملا کر باندھنا۔ عَكَّلَ

لِئْسِي الْأَمْرِ: کوشش کرنا..... فُلَانٌ: (.....)
وَأَعَكَّلَ وَاعْتَكَّلَ عَلَيْهِ: مشکل و مشتبہ ہونا۔

إِعْتَكَّلَ الرَّجُلُ: جدا ہونا۔ النَّوْزَانِ: بیوں کا
سینگوں سے لڑنا۔

العكّل والعكّل: لہیم۔ کینہ جع اعكال۔
العكسال: فاقم۔ بخیل۔ چھوٹے قد والا ج

عُكَّلَ:
العكال: اونٹ کے زانو باندھنے کی رسی۔
المعكّل: چرا ہے کی سوئی جس کو وہ درخت

سے بنا لیتا ہے۔ مع معاكل۔
عَكَّمَهُ (ض) عَكَّمًا الْمَتَاعَ: سامان کی

گھمڑی باندھنا..... عَلَيْهِ: حملہ کرنا.....
الرَّجُلُ: انتظار کرنا..... عَنِ الْأَمْرِ: پیچھے ہٹنا

..... عَنِ زِيَارَتِهِ: ہٹانا..... الْبَعِيْرُ: اونٹ پر
باندھنا..... لِأَرْضٍ كَذَا: قصد کرنا۔

عَكَّمَهُ عَنَهُ: ہٹانا جانا۔
عَكَّمَتِ: الْإِبِلُ: اونٹوں کا موٹا ہونا۔

اسی سے ہے "لَا يَغْدُمُ مَنَاعَ عِلَّةٍ" اس شخص کے لئے مثال بیان کی جاتی ہے جو عذر کرتا ہے اور اپنے مافی الید کے بچانے کے لئے منع کر دیتا ہے عِلَّةُ الشَّيْءِ: سبب جِ عِلَّاتٍ وَعِلَلٌ جِ أَغْلَالِ الْعِلَّاتِ: حالات۔ مختلف احوال۔ کہا جاتا ہے "جَسْرِي عَلِيَّ عَلَّابِيَه" یعنی ہر حال میں۔ یا باوجود مختلف احوال کے قبول کیا گیا۔ وَالْعِلَّةُ فِي الْغُرُوضِ: وہ تغیر جو اشعار کے عروض و ضرب میں لازمی طور پر لاحق ہو۔ سوائے نادر صورتوں کے حرف العلة: الف وَاوْ يَاءِ۔

العَلَلُ: دوسری مرتبہ پینا۔ کہا جاتا ہے عَلَلٌ بِسَعْدِ نَهْلٍ: پہلی مرتبہ پینے کے بعد دوسری مرتبہ پینا۔

السَّلَالَةُ وَالسَّعْلَةُ: بہلاوہ۔ السَّلَالَةُ: پہلی مرتبہ دودھ دوسری کے لئے مہلت کے بعد دودھا ہوا دودھ۔ بقیہ دودھ نیزہ بازی کے بعد نیزہ بازی دوڑ کے بعد دوڑ۔

الْعَلِيلُ: مریض جِ اَعْلَاءِ۔ الْمُعَلُّ وَالْمَعْلُولُ: مریض۔

الْعَلِيلَةُ: مَوْنَتٌ عَلِيلٌ: عورت جو بار بار خوشبو لگائے۔ جِ عَلِيلَاتٍ وَعَلَاتِلٌ۔

الْيَعْلُولُ: سفید حوص۔ پانی کا بلبل۔ سفید بادل تہ بتہ بادل۔ بارش کے بعد بارش۔ دو کوبان والا اونٹ۔ جِ يَعَالِيلٌ: یا زائدہ ہے۔

عَلَبَ (ن) عَلَبًا وَعَلَبَ الشَّيْءُ: کاٹنا۔ نشان لگانا۔ خراش لگانا۔

عَلَبَ (ن) عَلَبًا وَعَلِبَ (س) عَلَبًا: سخت ہونا۔ صفت عَلِبٌ۔

عَلَبَ وَعَلِبَ وَاسْتَعَلَبَ اللَّحْمُ: سخت ہونے کے بعد بوکا بدل جانا۔ عَلِبَ الشَّيْفُ: دندانہ دار ہونا۔

السَّعْلُبُ: مار کا نشان (.....) وَالسَّعْلُبُ وَالْعَلِبُ: سخت زمین جس میں کچھ نہ اگے۔

سخت چیز جِ عَلُوبٌ: کہا جاتا ہے "رُجُلٌ عَلِبٌ" سخت ظالم آدمی۔

عَكِي بَازِرَاهُ: ازار بند باندھنے کی جگہ کو سخت کرنا۔ بِالسَّمَكَانِ: اقامت کرنا۔ صفت عَاكِبٌ جِ عَكَاةٌ: اٹھکاء۔ مضبوط۔ باندھنا۔ عَكِي الدُّخَانِ: دھوئیں کا اوپر چڑھنا۔

عَلٌ (ن ض) عَلًا وَعَلَلًا وَتَعَلَّةٌ: دوسری مرتبہ پینا..... ة: دوسری مرتبہ پلانا..... ة ضَرْبًا: لگا تار مارنا۔

عَلٌ عِلَّةٌ: مریض ہونا۔ عِلَّةٌ: بار بار پلانا۔ ہنگڈا: مشغول کرنا۔

كَيْلٌ كُودٌ مِثْلُ ذَا النُّعَاةِ عِلَّةٌ الشَّيْءِ: علت بیان کرنا۔ دلیل سے ثابت کرنا..... الكَلِمَةُ: کلمہ کی تعلیل کی وجہ سے بیان کرنا۔ تعلیل کرنا..... التَّمْصِرَةُ: بار بار پھیل توڑنا۔ السَّمَالُ: بہترین انتظام کرنا..... ة: علاج کرنا۔

أَعْلَى الرَّجُلِ: گھونٹ گھونٹ پلانا..... ة اللُّهُ: بیمار کرنا..... الكَلِمَةُ: تعلیل کرنا۔

تَعَلَّلٌ: حجت ظاہر کرنا..... ہنگڈا: مشغول رہنا۔

تَعَلَّلْتُ وَتَعَلَّلْتُ: الْمَرْءُ مِنْ نَفْسِهَا: نفاس سے پاک ہو جانا۔ تَعَالَى الصَّبِيُّ نَدَى أُمِّهِ: بچے کا پستان سے سارے دودھ کو چوس لینا۔

إِعْتَلَّ: مریض ہونا..... بِالْأَمْرِ: مشغول رہنا۔ عذر بیان کرنا۔ اِعْتَلَّتِ الرِّيحُ: نرم ہونا..... ة: بہتان لگانا۔ اِعْتَلَّتِ الْكَلِمَةُ: حرف علت والا ہونا..... الرَّجُلُ: دوسری مرتبہ پینا..... عَنَّةٌ: اس کی وجہ سے بیمار پڑنا۔

العَلُّ: مونا بڑا بکرا۔ بڑی عمر کا لاغر۔ بیماری سے سکرے ہوئے چمڑے والا بے خیر و برکت۔ جِ أَغْلَالٌ۔

العِلَّةُ: بہلاوہ۔ سوکن جِ عِلَّاتٍ کہا جاتا ہے بنو علات: یعنی ایک مرد سے چند ماؤں کے بیٹے اور اس کے عکس کو اولادِ اخیاف کہتے ہیں۔

عَلٌّ: لعلٌ: میں ایک لغت ہے۔ العِلَّةُ: بیماری۔ مشغول کر دینے والا واقعہ اور

أَعْكَمَةٌ: باندھنے میں مدد دینا۔ بندھوانا۔ عَاكِمَةٌ مُعَاكِمَةٌ عَلِيٌّ فَلَانٌ: بند کرنا۔ اِغْتَكَمَ الشَّيْءُ: ڈھیر لگانا۔

العَكِيمُ جِ اعكام وعكوم. لعكام جِ عَكِمٌ: گھری۔

العَكِيمُ: بوری۔ بِنْدَلٌ: گھری۔ کونوں کی چرخی۔ عورتوں کے سامان رکھنے کا بیگ۔ کہا جاتا ہے "مَسَالَةٌ عَكُومٌ عَن كَذَا" یعنی اس کے لئے فلاں چیز سے پھرنے کی کوئی جگہ نہیں۔

المِعْكَمُ: بڑگوشت۔ تَعَكَّنَ: البَطْنُ: مونا پے کی وجہ سے سلوث پڑنا۔

السَّعْكُنَةُ: پیٹ کی سلوث۔ جِ عَكْسَنُ وَأَعْكَا نَ وَدِرْعُ ذَاتِ عَكْنٍ: وسیع و کشادہ زرہ۔

العِكَانُ: گلا۔ العِكَانُ مِنَ الثَّوْقِ أَوْ الشَّاءِ: مونے تھن والی اونٹنی یا بکری۔

العِكَانُ: بہت اونٹ۔ بہت شتر مرغ۔ عَكَا يَعْكُو عَكْوًا: ذَنْبُ الذَّابَّةِ: جانور کی دم کو اس کی جڑ کی طرف موڑنا۔ کہا جاتا ہے "فَرَسٌ مَعْكُوٌّ" یعنی دم مڑا ہوا گھوڑا..... ة

فِي السَّحَابِ: قید کرنا اور باندھنا۔ عَكَبَ الْإِبْرِي: مونا ہونا۔ عَكَا الصَّبُّ بِذَنْبِهِ: گوہ کا اپنی دم کو موڑنا۔ الدُّخَانُ: دھوئیں کا اوپر چڑھنا..... عَلِيٌّ قَوْمِيهِ: نائل ہونا..... بَازِرَاهُ: ازار باندھنے کی جگہ کو سخت کرنا۔

العَكْوَةُ وَالْعَكْوَةُ: جانور کی دم کی جڑ۔ زبان کی جڑ۔ ازار بند کی موٹی گرہ۔ ہر چیز کا بڑا حصہ۔ ہر چیز کی موناٹی۔ العَكْوَةُ: نکلا۔ جِ عَكَا وَعَكَا.

العَكِي مِنَ الْبَنَانِ الشَّانِ: ایک دوسرے پر دودھ دونا ہونا اور جما ہونا۔

الْأَعْكِي: سخت دم کی جڑ والا۔ موٹی پیشانی والا۔ مَوْنَتٌ عَكْوَاءُ.

عَكِي يَعْكِي عَكِيًا وَعَكِيًا وَاعْكِي: مرنا۔

العَلْبَةُ: چمڑے یا لکڑی کا بڑا برتن ج علاب و غلب. العَلْبَةُ: درخت کی موٹی گره ج علب. العَلْبَاءُ: گردن کے پہلو کا پتھا ج علابی کہا جاتا ہے "تَشْنَجُ عِلْبَاءُ" وہ بوڑھا ہو گیا۔ عَلَّتْ (ض) عَلْنَا الشَّيْءُ: جمع کرنا۔ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: ملانا۔ کہا جاتا ہے علث البُرِّ بالشعير: گہوں کو جو میں ملا دیا..... الزُّنْدُ: چھماق سے آگ نہ لگنا۔ عَلَّتْ (س) عَلْنَا القَوْمُ: آپس میں سختی سے لڑنا۔ تَعَلَّتْ لَهُ الذُّنُوبُ: حلیہ کرنا۔ نکر کرنا۔ یہہ: چمٹنا..... الشَّيْءُ: اچھی طرح نہ بتانا۔ إِغْتَلَّتْ: بغیر انتخاب کئے ہوئے لے لینا۔ العَلْتُ: گہوں وغیرہ میں سے جو چیز نکال کر پھینکنے کے قابل ہو اس کو ملا دیا جائے (.....) والعلینة) گہوں سے ملا ہوا۔ العَلَاتَةُ: دوسری چیز سے ملائی ہوئی چیز ادھر ادھر سے جمع کرنے والا آدمی۔ أَعْلَاثُ: السَّرَادُ: جو بغیر انتخاب اور عادت کے کھایا جائے۔ العَلِيثُ: جو گہوں کے روٹی۔ العَلْبُ وَالْمُعْتَلِبُ: جو باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف منسوب ہو۔ بے کار تیر۔ عَلَجَهُ (ن) عَلَجًا: معالجہ میں غالب آنا۔ عَلِجَ (س) عَلَجًا: مضبوط ہونا۔ عَسَالِحَةُ مُعَالَجَةٌ وَعِلَاجًا: مشق کرنا..... المُرِيضُ: بیمار کا علاج کرنا۔ تَعَلَّجَ الرُّمْلُ: ریت کا اکٹھا ہونا۔ تَعَالَجَ: علاج کرنا..... القَوْمُ: آپس میں جگمگ کرنا۔ إِغْتَلَجَ القَوْمُ: لڑائی کرنا۔ کشتی کرنا۔ إِغْتَلَجَتِ الوُحْشُ: ایک دوسرے کو مارنا..... الأَرْضُ: لپے لپے بترہ والی ہونا..... الأَمْوَاجُ: موجوں کا آپس میں ٹکرانا اور اسی سے ہے: إِغْتَلَجَتِ الهُمُومُ فِي صُدْرِهِ "غم اس کے سینہ میں موج مارنے لگے۔"	الرُّمْلُ: ریت کا جمع ہونا۔ إِسْتَعْلَجَ جِلْدُهُ: کھال کا موٹا ہونا۔ فَلَانٌ: داڑھی لگانا۔ العِلْجُ: گدھا۔ جنگلی گدھا۔ گورنر۔ موٹا قوی عجمی کا فر اور بعض مطلقاً کا فر پر اطلاق کرتے ہیں۔ ج غلوج و أغلاج و عِلْجَةٌ. رَجُلٌ عِلْجٌ وَعِلْجٌ وَعِلْجٌ وَعِلْجٌ: مضبوط کاموں کا کرنے والا مرد۔ العِلَاجُ: دواء۔ مشق۔ دفاع۔ العِلْجُ: چھوٹے چھوٹے گھوڑے کے درخت۔ العِلْجُ: پیغام۔ پیٹا مبر۔ العِلْجَانُ: کانٹے دار درخت۔ العِلْجَمُ: لمبا اونٹ یا گدھا۔ بہت پانی کا تالاب۔ العِلْجُمُ وَالْعِلْجُومُ: بہت سیاہ۔ العِلْجُومُ: بہت گھوڑوں والا باغ۔ سمندر کی موج۔ رات کی تاریکی۔ زمین ترک۔ میںڈھا۔ پہاڑی بکرا۔ بوڑھا تیل۔ ایک سفید پرندہ۔ زرخ۔ زرخ مرغ۔ بہت پانی۔ جھاڑی۔ لوگوں کی جماعت۔ ج عِلْجِيمُ. عَلِدَ عَلْدًا: سخت و مضبوط ہونا۔ صفت عَلْدُ. العَلْدُ: گردن کا پتھا۔ ج أَعْلَادُ. العَلْدِيُّ وَالْعَلْدِيُّ: مینڈکی یا مینڈکی کا موٹا ج عِلْدَانُ و عِلْدَانِي. العَلْدِدُ: مینڈکی کا پتھا۔ ج عِلْدَانُ و عِلْدَانِي. العَلْدَسُ: بہت سخت۔ العَلْدَسَةُ: مؤنث العَلْدَسِي: پیڑ۔ بندہ عجم۔ عَلِزٌ (س) عَلِزًا وَعَلِزَانًا: بے چین ہونا۔ صفت عَلِيزٌ. عَلِيزًا إِلَى الشَّيْءِ: نائل ہونا۔ مشتاق ہونا..... مِنْ كَذَا: یہہ تکلف مریض بننا۔ أَعْلَزَهُ: عاجز کرنا..... هُ الوَجْعُ: بے چین کر دینا۔ عَلَسَ (ض) عَلَسًا المَاءُ: پینا..... الأَبْلُ: اونٹ کا کھانے کے لئے کچھ نہ پانا۔ عَلَسَ: الدَّاءُ: مرض کا سخت ہونا..... الرَّجُلُ: شور مچانا۔ کہا جاتا ہے "مَا عَلَسُوهُ"	تَعَلَّيْنَا: انہوں نے اسے کچھ نہیں کھلایا۔ العَلَسُ وَالْعَلَّاسُ وَالْعَلُوسُ: خوراک کھانا۔ العَلَسُ: گہوں کی ایک قسم۔ مسور۔ ایک قسم کی چوٹی۔ چھڑی۔ المُعَلَسُ: تجربہ کیا ہوا۔ العَلُوسُ: گیدڑ۔ بھیریا۔ عَلَصَتِ التُّخْمَةُ فِي مِعْدَتِهِ: بدبھنی کی وجہ سے معدہ میں درد ہونا۔ عَالَصَةُ عَالَصًا: ایک دوسرے کو مارتا۔ إِغْتَلَصَ مِنْهُ شَيْئًا: تھوڑا سا لینا۔ العَلَصَةُ: تھوڑا سا۔ العَلُوسُ: بدبھنی اور یہ لفظ صفت بھی واقع ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ عِلْوسٌ" بدبھنی والا مرد۔ عَلَصَةُ (ض) عَلَصًا: التَّوَدُّ وَنَحْوُهُ: کھونٹ کو اکھینے کے لئے بلانا۔ عَلَطَ (ن ض) عَلَطًا وَعَلَطَ النَّاقَةَ: اونٹنی پر داغ لگانا..... هُ بَشَرٌ: بدگوئی کرنا۔ عَلَطَ البَعِيرُ: اونٹ کی گردن سے پتہ کو نکال دینا۔ تَعَلَطَ: القَوْمُ: تانتا جڑھانا۔ إِغْتَلَطَ: الرَّجُلُ: وہہ: جھگڑا کرنا۔ إِغْلَوَطَ: البَعِيرُ: اونٹ کی گردن سے لٹک کر سوار ہونا..... الأَمْسَرُ: بلا سوچے کچھ داخل ہونا۔ العَلَطُ مِنَ التَّوَقُّ: بے نشان و بے مہارا اونٹنی ج أَعْلَاطُ. أَعْلَاطُ الكَوَاكِبِ: بے نام کے ستارے۔ العَلَطَةُ: گردن کا پتہ۔ ج عِلْطُ. العِلَاطُ: گردن کا پہلو۔ آفتاب کی شعاع۔ لِزَانِي وَجَهْلًا: اونٹ کی گردن کی رسی ج أَعْلِطَةٌ وَعِلْطُ (.....) والا عِلْطُ: اونٹ کی گردن کا نشان۔ عَلَفَ (ض) عَلَفًا وَعَلَفَ وَأَعْلَفَ. الدَّابَّةُ: جانور کو چار دینا۔ عَلَفَ الرَّجُلُ: بہت پینا۔ أَعْلَفَ وَعَلَفَ الطَّلُحُ: بھلی لگانا۔
---	--	--

تَعَلَّقَ: چارہ ڈھونڈنا۔

اِعْتَلَقَتِ الذَّابَّةُ: چارہ کھانا۔

اِسْتَعَلَقَتِ الذَّابَّةُ: بہنہا کر چارہ مانگنا۔

العِلْفُ: بہت کھانے والا۔

العِلْفُ: چارہ ہی کھانے والا۔ ج

عِلْفٌ:

المَعْلُوفَةُ: چارہ ہی کھانے والا۔

العَلْفُ: چارہ ج عُلُوفَةٌ وَاَعْلَافٌ

وعِلْفٌ.

العَلْفُ: چارہ بیچنے والا ج عِلْفَةٌ

العِلْفِيَّةُ: چارہ ہی کھانے والا جانور ج

عِلْفٌ.

العِلْفُوفَةُ: چارہ ہی کھانے والا جانور (واحد و

جمع) العِلْفُوفَةُ: چارہ ج عِلْفٌ.

المُعَلَّفُ والمُعَلِّفُ: تھان۔ چارہ کھانے

کی جگہ معالِفٌ.

عِلْفٌ: ببول کی پھلی۔

عَلَّقَ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ: ملا نا۔

عَلَقَ (ن) عُلْفًا وَعُلُوفًا بَيعُورًا وَنَحْوَهُ

النَّبَاتِ وَمِنَ النَّبَاتِ: اوپر اوپر سے چرنا۔

الشَّيْءِ: اٹھایا چوسنا۔ (..... عُلْفًا)

الرَّجُلُ: گالی دینا۔ بِلِسَانِهِ: بدگوئی کر

کے تکلیف پہنچانا۔

عَلَّقَتْ (س) عُلُوفًا الْمَرْأَةَ وَكُلَّ اُنْثَى

بِالْوَلَدِ: حاملہ ہونا۔ الوَحْشُ بِالْحَيَاةِ:

وحشی جانور کا جال میں پھنسن جانا۔ السَّابَّةُ:

جانور کا پانی پینا اور جو تک کا چٹ جانا۔

الشُّوْكَ بِالثُّوْبِ: کپڑے میں کانٹے کا لگ

جانا۔ (..... عُلْفًا) الْاِبِلُ فِي الْوَادِي: چرنے

کے لئے جانا۔

عَلَقَ (س) عُلُوفًا وَعِلْفًا وَعِلْفًا وَعِلْفًا

فَلَا نَا وَعَلَقَ بِهِ: محبت کرنا۔ حُبُّهُ بِقَلْبِهِ:

محبت کرنا۔ کہا جاتا ہے "عَلِقَ مِنْهُ كُلُّ

مَعْلُقٍ" یعنی اس سے اس نے محبت کی اور

محبت دل کے پردے میں داخل ہو گئی۔ عَلِقَ

دَمَ فُلَانٍ: قتل کرنا۔ ہر وہ چیز جو اپنے موقع

میں واقع ہو اس کے لئے عَلِقَ مَعَالِيقَهُ:

بولتے ہیں (..... عِلْفًا) اَمْرُهُ: جانتا۔ عَلِقَ

يَفْعَلُ كَذَا: کرنے لگا۔

عَلِقَ الرَّجُلُ: گلے میں جو تک لگایا جاتا۔ جس

کو لگایا جائے اس کو مَعْلُوقٌ کہتے ہیں۔

عَلِقَ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ وَعَلَيْهِ وَمِنْهُ: لٹکانا۔

الْاَمْرُ: چمٹ جانا۔ النَّبَاتُ: دروازہ بند

کرنا۔ نَابَا عَلَيَّ ذَاوَهُ: دروازہ لگانا۔

عَلِقَهُ: دل کا مائل ہونا۔

اَعْلَقَ الرَّجُلُ: جو تک لگانا۔ الْقَوْسُ:

کمان کو لٹکانے کے لئے علاقہ بنانا۔

..... السَّابَّةُ: شکاری کے جال میں شکار کا پھنسن

..... ظَفَرُهُ بِالشَّيْءِ: ناخن چھو دینا۔ الشَّيْءُ

بِالشَّيْءِ: لٹکانا۔

تَعَلَّقَ الشَّيْءُ: لٹکانا۔ الشُّوْكَ بِالثُّوْبِ:

کانٹے کا کپڑے سے لٹکانا۔ السُّيْدُ

بِالْحَيَاةِ: شکار کا جال میں پھنسن

وَاَعْتَلَقَ فَلَا نَا وَبِهِ: محبت کرنا۔

العَلْقُ: مصل اور کہا جاتا ہے "فِي نَفْسِهِ عَلِقَ"

یعنی اس کے کپڑے میں کسی چیز کے لٹکنے

سے پھنسن ہے (..... والعَلْقُ) ہر چیز کا نفیس۔

تھمبلا۔ ج عِلْفًا وَعُلُوقًا کہا جاتا ہے "هُوَ

عَلِقٌ عِلْمٌ" یعنی وہ علم کا شائق ہے۔

العَلْقُ: مصل۔ خون۔ ہاتھ سے چمٹنے والی مٹی

لٹکانی ہوئی چیز۔ درخت کا وہ حصہ جہاں

جانور پھنچ سکے۔ جو تک۔ واحد عِلْفَةٌ.

العِلْفَةُ: لٹکانے کی نوعیت۔ بغیر آستینوں کے

قمیص۔ بہترین کپڑا۔

العِلْفَةُ: درخت کا وہ حصہ جہاں جانور پھنچ

سکے۔ وہ چیز جس کو کھانے سے پہلے دل

بہلاؤ کے طور پر کھائیں۔ تھوڑی سی چیز۔

تعلق ج عِلْقٌ: کہا جاتا ہے "لِسِي فِئِي هَذَا

الْمَالِ عِلْفَةٌ" یعنی مجھ کو اس مال سے تعلق

ہے "لَمْ يَبْقَ عِنْدَهُ عِلْفَةٌ" اس کے پاس کچھ

بھی باقی نہیں رہا۔

العَلْقُ: موت۔ جماعت کثیرہ۔ اشغال۔

العِلْقُ: درخت کا وہ حصہ جس کو جانور پانے کے

وہ چیز جس کو کھانے سے پہلے دل بہلاؤ سے

کے طور پر کھائیں۔

العِلْقَةُ: مصل۔ دوستی۔ دشمنی۔ موت۔ گزر

بسر کا ذریعہ جس کا انسان سے تعلق ہو جیسے

مال زویہ اولاد۔ تعلق۔ محبت۔ ج عِلْفَانِي

کہا جاتا ہے "لِسِي فِئِي هَذَا الْاَمْرُ عِلْقَةٌ"

یعنی مجھ کو اس معاملہ سے تعلق ہے۔

العِلْقَةُ: ہانڈی وغیرہ لٹکانے کی چیز۔ ج عِلْعَلَا

يُق.

العِلْقُوقُ: مصیبت۔ موت۔ ہر وہ جس کا

انسان سے تعلق ہو۔ بہت چمٹنے والا۔ دائمی

پلائی۔

العِلْقُوقُ: بھوت۔ چھلاوہ۔ کتیا۔ بھڑیا۔

بھوک۔ دُم۔

العِلْقِي: جانوروں کا چارہ جیسے جو وغیرہ۔

العِلْقِيَّةُ وَالْعِلْقِيَّةِيُّ: ایک قسم کی گھاس جو

درخت پر لپٹی ہے اور اس کا پھل توت کے

مانند ہوتا ہے۔

العِلْقِيَّةُ: کتاب کا حاشیہ۔ ج تَعَالِيْقُ.

العِلْقِيَّةُ: مؤنث مَعْلُقٌ: وہ عورت جس کا

شوہر غائب ہو گیا ہو اور کچھ پتہ نہ چلتا۔

العِلْقِيَّاتُ: زمانہ جاہلیت کے سات قصائد

ہیں جن کو کعبہ میں آویزاں کیا گیا تھا اسی وجہ

سے ان کو مَعْلَقَاتُ کہتے ہیں۔

العِلْقُوقُ: پیالہ جس کو سواری اپنے ساتھ لٹکانے

رہتا ہے۔

العِلْقُوقُ: زبان۔ ہر وہ چیز جس سے لٹکانا

جائے۔ ج مَعَالِيْقُ. وَرَجُلٌ مِعْلَاقٌ:

بھگڑالو۔

عوام کے کے نزدیک (مِعْلَاقٌ) کا اطلاق

زیچہ کے پھپھوڑے جگر دل پر ہوتا ہے اور

فَسْحٌ (سُحَاةٌ) ہے۔

عَلَقَمَ الشَّيْءُ: کڑوا ہونا۔ الطَّعَامُ: کھانے

میں کڑوی چیز۔ النَا۔

العَلْقَمُ: اندر آن مَحْظَلٌ۔ ہر کڑوی چیز۔

عَلَكَ (ن ض) عَلَاكَ. العِلْكُ وَنَحْوَهُ:

چبانا۔ نَابِيَةٌ: دانت پینا۔

عَلَكَ الجِلْدُ: کھال کی اچھی طرح سے

دباغت کرنا..... يَذْبُهْ عَلِي مَالِه: بھل کی وجہ سے ہاتھ روک لینا۔

الْعِلْمُ: ہر گوند جو چھپا یا جائے۔
عُلُوكٌ وَاغْلَاكٌ: ایک گلے کو الیگٹہ کہتے ہیں۔

العِلْكَةُ: وہ زمین جو پانی کے قریب ہو۔
العِلْكُ: لیس دار چیز جو ہاتھوں سے چٹ جائے۔

العِلَاكُ وَاغْلَاكُ: جو چیز چھپائی جائے۔
العِلَاكُ: بہت چھپانے والا۔ گوند بیچنے والا۔

عِلْمَةٌ (نض) عَلْمًا: نشان لگانا۔ عَلْمُ الشَّفَةِ: ہونٹ چیرنا۔

عِلْمٌ (س) عَلْمًا الرَّجُلُ: حقیقت علم کو پال لینا۔ الشَّيْءُ: پہچاننا۔ یقین کرنا..... الشَّيْءُ وَبِهَ: جاننا۔ ادراک کرنا..... الْأَمْرُ: مضبوط کرنا۔

عِلْمٌ (س) عَلْمًا: اوپر کا ہونٹ پھٹنا۔ صفتِ اَعْلَمُ.

عَلْمُهُ تَعْلِيمًا وَعِلْمًا وَالصَّنْعَةَ وَغَيْرَهَا: سکھانا۔ عَلْمٌ لَهُ عَلَامَةٌ: پہچاننے کے لئے علامت مقرر کرنا۔

أَعْلَمَهُ الْأَمْرُ وَالْأَمْرُ: بتا دینا۔ اِطْلَاعٌ دینا۔ اَعْلَمَ الْقَرَسَ: لڑائی میں رگے ہوئے اون کا نشان۔ گھوڑے پر لگانا..... الشُّوْبُ: کپڑے پر نشان بنانا۔ انقش و نگار کرنا..... نَفْسُهُ: لڑائی کی علامت لگانا..... عَلِي كَذًا مِنَ الْكِتَابِ وَغَيْرِهِ: علامت لگانا۔

عَالِمَةٌ: علم میں علیہ کرنا۔
تَعَلَّمَ: سیکھنا..... الْأَمْرُ: مضبوط کرنا اور تَعَلَّمَ: صیغہ امرِ اَعْلَمُ کے معنی میں ہے۔

إِعْلَمَ السَّمَاءَ: پانی بہنا..... الشَّيْءُ: جاننا..... البُرُقُ: پہاڑ میں بجلی کا چمکانا۔

تَعَالَمَ الْقَوْمُ الشَّيْءُ: جاننا۔
اسْتَعْلَمَ الْخَبْرَ: خبر دریافت کرنا۔

العِلْمُ: کپڑے کا نقش۔ جھنڈا۔ قوم کا سردار۔ اَعْلَامُ الْعِلْمِ: راستہ کا نشان۔

اونچا پہاڑ۔ علامت نشان۔ منارہج اعلام و اعلام۔

العِلْمُ: مص۔ حقیقت شی کا ادراک۔ یقین و معرفت جِ عَلُومِ.

عِلَامٌ: علی حرف ج راور ما استفہامیہ سے مرکب ہے اور الف حذف کر دیا گیا ہے۔

العِلَامَةُ: نشان۔ راستہ کا نشان۔ جِ عَلَامٌ وَعِلَامَاتُ.

العَالِمُ: ساری مخلوق۔ ماسوی اللہ۔ جِ عَوَالِمِ وَعَالَمُونَ وَعِلَالِمِ.

العَالِمِ: فَا۔ جِ عَلَامٌ وَعَسَالِمُونَ (.....) وَالْقَلِيمُ) موصوف بالعلم جِ عِلْمَاءُ.

العِلَامُ وَالْعِلَامَةُ وَالْعِلَامَةُ: مبالغہ کے صیغے۔ بہت زیادہ جاننے والا۔

العِلَامُ وَالْعِلَامُ: شکرہ۔ باز۔
العِلَامِيُّ: سبک روح۔ تیز فہم۔

العِلْمُ: مص۔ عالم۔
العِلْمُ التَّعْلِيمِيُّ: علم ریاضی (حساب) علم موسیقی عِلْمُ التَّنْجِيمِ: ستاروں کے آنے

جانے کا علم جس کے ذریعے بقول اصحاب علم النجوم وہ لوگوں کو مستقبل کی معلومات فائدہ اور نقصانات سے آگاہ کرتے ہیں۔ العِلْمُ الفِصْلِيُّ: قواعد کے مطابق فنون کو تجزیہ گاہ میں استعمال کرنا۔ عِلْمُ الْفُلْكِ: اجرام فلکی کے مواقع کے بارے میں ان کے مادہ مسافت اور ان کے دورانیے کے متعلق بحث کرنا۔

العِلْمُ النَّظَرِيُّ: علم عملی کا صدیقی نظریات قائم کرنا بغیر عمل کے۔ العِلْمُ اللَّذَنِي: وہ علم جو اللہ تعالیٰ سے بذریعہ وحی سیکھا جائے۔

العِلْمُ الْمُذَوَّنَةُ: وہ علوم جن کو کتابوں میں تحریر کر دیا گیا ہے۔

العِلْمُ الْمُتَعَارَفَةُ: وہ ابتدائی معلوم معلومات جن کو علوم مروت میں پیش کیا گیا۔

العِلْمُ الْاَلِيَّةُ: وہ علوم جن کے ذریعے دوسرے علوم حاصل ہوں جیسے منطق۔

العِلْمُ الْعَرَبِيَّةُ: وہ علوم جو عربی زبان کو سمجھنے میں مدد دیں جیسے صرف نحو معانی اور بیان۔

العِلْمُ الشَّرْعِيَّةُ: وہ علوم جن میں شرعی احکام ذکر کئے جاتے ہیں خواہ عملی یا اعتقادی جیسے علم الکلام و علم الفقہ۔

العِلْمُ الْحَقِيقِيَّةُ: وہ علوم جو کہ شریعت کے بدلنے کے ساتھ نہیں بدلتے۔ جیسے علم کلام و منطق۔

العِلْمُ الْاَلِهِيَّةُ: وہ علوم جن میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور صفات کے متعلق بحث کی جائے۔

عِلْمُ النَّفْسِ: سکولے جانا۔
عِلْمُ طَبَقَاتِ الْأَرْضِ: جو لوجیہ جیا۔
عِلْمُ الْحَيَاةِ: یولوجیہ جیا۔
عِلْمُ الْاِبْتِجَاعِ: علم سویسیولوجیہ جیا۔
عِلْمُ وَظَائِفِ الْبَدَنِ: فیزولوجیہ جیا۔
عِلْمُ أَعْضَاءِ الْبَدَنِ: مورفولوجیہ جیا۔
الاعلم: اسم تفضیل۔ وہ شخص جس کے اوپر کا ہونٹ پھٹا ہوا ہو۔ مَوْنُثُ عِلْمَاءُ جِ عِلْمِ الْعِلْمَاءِ: زرہ۔

الاعلومة و العالمة: اوپر کے ہونٹ میں پھٹن۔

العيلم: سمندر۔ بہت پانی کا کنواں۔
میتڈک موٹا۔ نازک بدن (.....) والعيلم: نریجوع عیالیم و عیالیم.

العيلم: راستہ کی نشانی۔ معلم الشئ: چیز کے پائے جانے کی جگہ۔ ج معلم: کہا جاتا ہے "حقیقت معلیم الطریق" راستہ کی نشانیاں مخفی ہو گئیں۔

المعلومیة: معلوم کی طرف نسبت۔
العلماد و العلامدة: جس پر دھاگے کا گولہ بنایا جائے۔ جِ عَلَامِدَةٌ وَعِلَامِيدُ.

عَلَنَ (نض) وَعَلَنَ (ک) وَعَلَنَ (س) عَلْنَا وَعِلَانِيَةٌ وَعِلُونَا وَإِعْتَلَنَ وَإِسْتَعْلَنَ الْأَمْرُ: ظاہر ہونا۔ صفت عالیہ وَعِلَنَ وَعَلِنَ.

عَالَنَ مُعَالَنَةً وَعِلَانًا الْعِدَاوَةَ وَالْعِدَاوَةَ: کھلم کھلا دشمنی کرنا۔

عَالِيَةٌ وَأَعْلَى الْأَمْرُ وَالْأَمْرُ وَعَلِيَّةٌ إِلَيْهِ :
ظاہر کرنا۔

إِسْتَعْلَى : الْأَمْرُ وَالْأَمْرُ : ظاہر کرنے کے
دریے ہونا۔

الْعَالِيَّةُ : مَصْرٌ - كَهْلَمْ كَهَلَا - كَمَا جَاءَتْ فِي "رَجُلٌ
عَالِيَةٌ" يَعْنِي أَنَّ اس کا امر ظاہر ہے۔ ج
عَلَاؤُونَ.

الْعَالِيَّةُ : وَهِيَ شَخْصٌ جَسَدٌ كَمَا مَعَالَمٌ ظَاهِرٌ هُوَ ج
عَلَاؤُونَ.

الْعَالِيَّةُ : جَوْفُخُصِّ اِبْنِ رَازِ كُوْشِيْدِهِ نَدْرَكُهُ -
عَلِيَّةٌ (س) عَلِيَّتُهَا : مَشْهَبٌ هُوَ - تَجَمُّرٌ هُوَ -

دَبْشَتُ زَدِهٌ هُوَ - هُوكَا هُوَ - قَابِلٌ مَلَامَتٍ
هُوَ - كَهْمَبْرَاهِمْتُ سَ عَ آ جَانَا - بِدَفْطَرَتِ هُوَ -

صَفْتٌ مَذْكُورٌ عَلِيَّتَانِ جَ عِلَاةٌ - صَفْتٌ مَوْتٌ
عَلِيَّتِي جَ عَلَاةً.

الْقَلْبَةُ : وَهِيَ شَخْصٌ جَسَدٌ كَانْفَسٌ شَرَارَتِ پَسْنَدِ هُوَ - وَه
شَخْصٌ جَوْتَجَمُّرٌ هُوَ كَرَأَى جَاءَ -

الْعَالِيَةُ : شَرْمَرٌ - عَمُورَتٌ جَوَائِكُ رَاسْتِ پَرْدِ
حَلِي - مَخْتَلَفٌ قَسْمٌ كَ ارَادَ سَ كَرَى -

الْقَلْبَةُ : مَصْرٌ - بَرَأَى - غَمٌ -
عَلَا يَعْطُوْا عَلُوًّا وَعَلَى يَعْطِي عَلَاةً وَإِعْتَلَى

الشَّيْءُ أَوْ النَّهَارُ : بَلَدٌ هُوَ - عَلَا الرَّجُلُ :
غَالِبٌ هُوَ هُ بِالسَّيْفِ : تَلَوَّارَ سَ مَارَا

..... السَّمَكَانَ وَبِهِ : جُزْءَانَا الدَّابَّةُ : جَانُورٌ
پَرَسُوَارِ هُوَ - عَلَا فَيْسِي الْأَرْضِ : كَبْتَمَرٌ كَرْنَا -

عَلَا بِهِ : بَلَدٌ كَرْنَا الْأَمْرُ وَآةٌ : طَاقَتُ كَرْنَا -
صَفْتٌ عَلَا بِالْأَمْرِ : مُسْتَقْبَلٌ هُوَ - قَسْرَنَهُ :

هَمْسٌ پَر غَالِبٌ آ نَا - عَلَيَّتِ الْعَيْنُ عَن فُلَانٍ
: كَسَى سَ نَگَاهُ كَانَا مَوَافِقٌ هُوَ - عَلَا عَلِيٌّ فِي

الْمَكَارِمِ : دَرَجَةٌ فِي بَلَدٍ هُوَ - اِعْتَلَى الشَّيْءُ :
قَوِيٌّ هُوَ - غَالِبٌ هُوَ -

عَلَى وَعَلَى الشَّيْءِ : جُزْءَانَا -
عَلَى وَعَلَى وَعَالِي الشَّيْءِ : بَلَدٌ كَرْنَا - عَلَى

الْكِتَابِ : عَمُورَانٌ لِكَمَا - عَلَى وَعَلَى الْمَتَاعِ
عَنِ الدَّابَّةِ : اِتَّارَا - عَلَى اللّٰهُ فُلَانًا : اَللّٰهُ كَا

كَسَى كُو بَلَدٌ كَرْنَا اَوْرَعَالِي مَرْتَبَةٌ بَانَا - عَلَا سَى
الشَّيْءِ وَبِهِ : جُزْءَانَا - كَمَا جَاءَتْ فِي عَلَا عَنِّي :

یعنی مجھ سے دور ہو۔

تَعَلَى الرَّجُلُ : آهْتَهُ آهْتَهُ جُزْءَانَا - تَعَلَّتْ
الْمَرْأَةُ مِنْ مَرَضِيْهَا : صَحْتٌ پَانَا -

تَعَالَى : بَلَدٌ هُوَ - تَعَالَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ
مَرَضِيْهَا : صَحْتٌ پَانَا - "تَعَال" آ جَا - (فصل

امر)

إِسْتَعْلَى النَّهَارُ : بَلَدٌ هُوَ هُ : غَالِبٌ هُوَ
(..... وَأَعْلُوْنَا) الشَّيْءِ : جُزْءَانَا -

عَلٌ : اِسْمٌ بِمَعْنَى فَوْقَ - جَب مَعْرُوفٌ هُوَ "مِنْ
عَلٌ" بِمَعْنَى عَلِيٍّ اَلضَّمُّ اَوْرَكِرَهُ كِي صَوْرَتِ فِي "مِنْ

عَلِيٍّ" كَمَا جَاءَتْ فِي اَوْر "أَتَيْتُهُ مِنْ عَلَا" بِمَعْنَى كَمَا
جَاءَتْ فِي -

العلا والعلی : بلندی شرافت -
العلی والعلیة : بلند جگہ - کہا جاتا ہے "هَمْ

عَلِي السَّوْمُ" یعنی وہ لوگ قوم کے سردار
ہیں -

عَلُو الشَّيْءِ وَعَلُوْنَا وَعَلُوْنَا وَعَلَاؤُنَا :
بلندی - کہا جاتا ہے "أَخَذَهُ عَلُوْنَا" یعنی اس

نے اس کو زبردستی لے لیا -
السَّجَالُوْنَا مِنْ كَمَلِي شَيْءٍ : ہر چیز میں سے زیادہ

بوجھ لادنے کے بعد جو ٹوٹا دیا جائے - سَرِيَا
گردن کا اوپر کا حصہ جَ عَلَاؤِي وَعَلَاؤِي : کہا

جاتا ہے اَعْطَيْتُكَ اَلْفَ دِيْنَارًا وَدِيْنَارًا
عِلَاؤَةً : میں نے تجھ کو ہزار دینار دیے اور

ایک دینار زائد دیا -
السَّعْلَاةُ : نہائی - بلند اونٹنی جَ عَلَاوَاتِ

وَعَلَاةٍ
العَلِيُّ : اللّٰهُ تَعَالَى كَ اِسْمَاءِ حَسَنِي فِي سَ

ایک نام - بلند - شریف - سخت جَ عَلِيُّونَ
وَعَلِيَّةٌ : کہا جاتا ہے "هَمْ عَلِيَّةُ الْقَوْمِ" یعنی

وہ قوم کے سردار اور اشراف ہیں -
العَلِيُّ : بلندی -

العَلِيُّوْنَا : حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جانب
نسبت - جَ عَلَاؤِيَّةٌ .

العَلِيَّةُ وَالْعَلِيَّةُ : بِالْاَخَانَةِ عَلَا سَى : کہا
جاتا ہے "هُوَ مِنْ عَلِيَّةِ قَوْمِهِ وَعَلِيَّتِهِمْ

وَعَلِيَّتِهِمْ وَعَلِيَّتِهِمْ" یعنی وہ اپنی قوم میں

صاحب رفعت و شرف ہے۔

العَالِي فَارِجٌ عَلَى الْكُفْبِ : شَرِيْفٌ - كَمَا
جَاءَتْ فِي "أَتَيْتُهُ مِنْ عَلَا" يَعْنِي فِي اس كَ

پاس اوپر سے آیا -
العَالِيَةُ : مَوْتٌ عَلَا - نِيْزٌ كَا اَوْرَكَ حَصِيَا

نِيْزٌ كَا نَصْفِ اَعْلَى جَ عَلَايَاتِ وَعَوَالٍ .
العَوَالِي : نِيْزٌ - العَوَالِي : مَدِيْنَةُ طَبِيْعَةِ كَ

اِرْدُرُودِ كَ كَاؤُنِ اَوْرَ اُنْ كِي طَرَفِ جَب
نسبت کرتے ہیں تو عَلَايِي وَعَلَاؤِي كَتَبْتِ

ہیں - عَلَايَةُ الشَّيْءِ : جِيْزٌ كَا بَلَدٌ حَصِيَا - عَلَايَةُ
السَّوَادِي وَادِي وَادِي كَا وَهِي جَا سَ پَانِي

گرنے -
الاعلے : اسم تفضیل - زیادہ بلند - کہا جاتا

ہے "هُوَ اَعْلَى بِيْهَمُ عَيْنَا" یعنی وہ لوگوں كَ
احوال و كَوَائِفِ كَا زِيَادَةً دَكِيْهَةً مَحَالِ كَرْنِ وَالَا

ہے مَوْتٌ عَلَايَا عَلَى .
المُعْتَلَى : شِرٌّ -

العَلِيَّةُ وَالْعَلِيَّةُ : ہر بلند جگہ - کہا جاتا ہے شَفَّةُ
عَلِيَّاءَ وَعَلِيَّاءَ الْعَلِيَّاءِ : پہاڑ کی چوٹی -

آسمان -
العَلِيُّونَ : اَعْلَى جَنَّتِ كَا نَامٌ اَوْرِي جَمْعُ عَلِيٍّ كِي

ہے وہ لوگ جو شہر کے بلند حصوں میں رہیں
اور تُوَاكِرُوا اَوْر اَبْلِ شَرَا فِتِّ كُو "اَهْلُ عَلِيَّتِيْنَ"

کہتے ہیں - پست درجے کے لوگوں كُو
"سِفْلِيُّونَ" .

العَلِيَّانَ وَالْعَلِيَّانَ : مَوْتَا لِبَا - كَمَا جَاءَتْ فِي
"رَجُلٌ عَلِيَّانٌ وَامْرَأَةٌ عَلِيَّانٌ" زَرْبُو -

العَلِيَّانَ وَالْعَلِيَّانَ : بَلَدٌ آ وَاز -
العَلِيَّانَ : كِتَابٌ كَا عَمُورَانَا -

المَعْلَاةُ : شَرَفٌ وَبَلَدٌ جَ مَعَالٍ .
المُعْتَلَى : جَوْنٌ كَا سَاوَاتِ تِيْر -

الْحُرُوفُ الْمُسْتَعْلِيَّةُ : حٌ - مِثْلُ طَظْغِ
ق -

عَلُوْنَا وَعَلُوْنَا وَعَلُوْنَا : الْكِتَابُ : مَخْطُ پَرِيْتِ
كَلَمَا -

عَلُوْنَا الْكِتَابِ : سَرْنَامَةٌ -
عَلَى يَعْطِي عَلَاً وَعَلِيَّا السُّطْحُ : جُزْءَانَا -

العَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلِيَّاءَ وَالْعَلِيَّانِ
وَالْعَلِيَّانِ وَالْعَلَايَةَ وَالْعَلِيَّةَ وَالْعَلِيَّ وَالْعَلِيَّ
:نَادٍ عَلٌّ وَمِنْ ذَكَرٍ هُوَ يَجُكُّ -

علی: حروف جر میں سے ہے۔ مندرجہ ذیل
معانی میں مستعمل ہے۔

(۱) استعلاء: جیسے حُمَلٌ عَلَى
الدَّابَّةِ (جانور پر لاوا گیا)

(۲) مصاحبت: جیسے بَدَلُ الْمَالِ عَلَى
الْفَقْرِ (مال کو باوجود فقر کے خرچ کیا۔)

(۳) مجاوزہ: بمعنی عن: جیسے زَضِيٌّ عَلَيْهِ أَيْ
زَضِيٌّ عَنْهُ: یعنی وہ اس سے راضی ہوا۔

(۴) تعلیل: جیسے عَلَامَةٌ تَضْرِبُنِي (کس وجہ
سے تم مجھ کو مار رہے ہو)

(۵) ظرفیت: جیسے دَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى
جِبْنٍ غَفْلَةٍ (شہر میں غفلت کے وقت میں
داخل ہوا۔)

(۶) موافقت باء: جیسے اِزْتَكَبَ عَلَيَّ اِسْمُ
اللَّهِ (اللہ کے نام سے سوار ہوا۔)

(۷) استدراک: جیسے عَلِيٌّ اِنَّ قُرْبَ الدَّارِ
خَيْرٌ مِنَ الْبُعْدِ (لیکن گھر کا قرب دوری سے
بہتر ہے۔)

(۸) اور کبھی فوق کے معنی میں اسم ہو کر
مستعمل ہے اور یہ اس وقت جبکہ مین کے
بعد ہو جیسے اَقَامَ مِنْ عَلِيٍّ جَنَاحَ الْهَيْكَلِ (وہ
بیکل کے بازو پر کھڑا ہوا) اور کہا جاتا ہے
عَلِيٌّ كَذَا وَبِكَذَا: یعنی مجھ کو اتنا دو۔ عَلِيٌّ كَذَا
زَيْدًا: یعنی زید کے ساتھ لازم ہو عَلِيٌّ كَذَا
بِكَذَا: یعنی فلاں چیز کے ساتھ تمک کرو اور یہ
اس صورت میں اسم فعل ہوتا ہے۔

عَمٌّ (ن) عُمُوْمًا الشَّيْءُ: عام ہونا۔۔۔۔۔

الْمَطْرُ الْأَرْضُ: بارش کا ساری زمین کو عام
ہونا۔۔۔۔۔ (عَمًّا) الْقَوْمُ بِالْعَطِيَّةِ: سب کو
شامل کرنا۔۔۔۔۔ (عمومہ) چچا ہونا۔

عَمٌّ رَأْسُهُ عَمًّا وَعَمِيْمٌ: بگڑی لپیٹا جانا۔

عَمِيْمٌ الرَّجُلُ: سردار بنایا جانا۔

أَعَمُّ: معزز بچوں والا ہونا۔

..... هُ الْأَمْرُ: کسی امر کا فائدہ ڈالنا۔

إِغْتَمَّ وَتَعَمَّتْ وَاسْتَعَمَّ: عمامہ باندھنا۔ کہا
جاتا ہے اِغْتَمَّ الشَّابُّ: طویل ہو گیا۔

"تَعَمَّتْ الْأَكَامُ بِالنَّبْتِ: نیلے نباتات سے
بھر گئے۔ گویا کہ عمامہ جیسا معلوم ہوتا ہے۔

تَعَمَّمَهُ: چچا کہہ کے پکارنا۔ اِسْتَعَمَّتْ: چچا
بنانا۔

العَمُّ: مص۔ جماعت کثیرہ۔ چچانِ عُمُوْمَةٌ
وَأَعْمَامٌ وَأَعْمَمٌ اور نسبت کے لئے عَمَوِيٌّ
(..... والعَمُّ) لے لے کھجور کے درخت۔

العَمَّةُ: پھوپھی ج عَمَّاتُ.

العَمَّةُ: عمامہ باندھنے کی بیبت۔
رَجُلٌ عَمِيٌّ: عام۔

العَمُّمُ: جسم کا کمال۔ جوانی اور مال وغیرہ کا
کمال۔

العَمِّمُ: کثرت۔ اجتماع۔ عامہ کا اسم جمع۔
ہر معاملہ کا عام و شامل۔ رَجُلٌ عَمَمٌ کامل
العقل۔ کامل الخیر۔ کہا جاتا ہے "اِسْتَوَى

فُلَانٌ عَلَيَّ عَمِيْمٌ".

العُمُوْمُ: مص۔ عمومیت۔ شمولیت اور نسبت
کے لئے عموی۔

العِمَامَةُ: بگڑی۔ خود کا وہ حصہ جو سر کے
برابر بنا کر ٹوپی کے نیچے پہنا جاتا ہے ج

عَمَائِمٌ وَعَمَامٌ کہا جاتا ہے "أَزْحَى
عِمَامَةً" وہ خوش حال ہو گیا۔ العِمَامَةُ: قحط۔

کال۔ قیامت۔

العَمَامُ: سب کو شامل ہونے والا۔ خلاف
خاص۔

العَامَّةُ: مؤنث عام۔ عَامَّةُ النَّاسِ: عام
لوگ ج عَمَوَامٌ کہا جاتا ہے "جَاءَ الْقَوْمُ
عَامَّةً" یعنی قوم ساری کی ساری آئی۔

العَمِيْمُ: ہر وہ چیز جو کبھی ہو اور کبھی نہ ہو۔ قوم
کا خالص۔ ہر چیز کا کال ج عَمَمٌ.

العَمِيْمَةُ مِنَ النِّسَاءِ: پورے قد کی لمبی تزگی
عورت۔ نَخْلَةٌ عَمِيْمَةٌ: لمبا کھجور کا درخت

ج عَمَمٌ.

الاعَمُّ: اسم تفضیل۔ جماعت کثیرہ۔ مونا۔

العَمِيْمُ: مخیر۔ عام فیض والا۔

السَّمْعَمُ: سردار جس کو قوم نے مقتدی مان لیا
ہو۔

العَمْبَرُ: عَمْبَرٌ -

عَمَّتْ (ض) عَمَّتَا وَعَمَّتِ الصُّوْفُ:
اون کی بیوی بنا تا۔ عَمَّتَةٌ: مغلوب کرنا۔

مقصد سے بنا دینا۔ اندھا دھند لاشی سے
مارنا۔

رَجُلٌ عَمِيْتٌ: ظریف دلاور۔ عالم
زیرک۔

العَمِيْتُ: تمہیں ان۔ سمجھ دار ظریف۔
مد ہوش۔ وہ شخص جو اپنی چال میں کسی جبت

کی ہدایت نہ پائے۔ ج عَمَامِيْتٌ.

العَمِيْمَةُ: اون کی بیوی ج عَمَامِيْتٌ وَعَمَّتُ
وَأَعْمِيْتَةٌ.

عَمَجٌ (ض) عَمَجًا: پانی میں تیرنا۔ فِئِي
سَيْرُهُ: دوڑنا۔۔۔۔۔ (وَتَعَمَّجُ) السَّيْلُ او
الْحَيَّةُ: بیچ دار ہونا۔

العَمَجُ وَالْمُعْجُ وَالْعَوْمُجُ: سانپ۔

عَمَدٌ (ض) عَمَدًا: السَّقْفُ: چھت میں
ستون لگانا۔۔۔۔۔ لِلشَّيْءِ وَاللَّي الشَّيْءُ: قصد

کرنا۔ اِلَى الرَّجُلِ: کسی کا ارادہ کرنا۔۔۔۔۔
الشَّيْءُ: کرنا۔۔۔۔۔ عَمَدٌ: ستون سے مارنا۔۔۔۔۔

الْمَرْحُوسُ او الْأَمْرُ: دہلا کرنا۔ تکلیف پہنچانا
(.....) وَعَمَدٌ (الْوَلَدُ) بچہ دینا۔ عَمَدٌ

السَّيْلُ: بند لگانا۔

عَمَدٌ (س) عَمَدًا: عَلَيْهِ: غضبناک ہونا۔
بہ: لازم ہونا۔۔۔۔۔ الْقَرْيُ: ترک کرنا۔۔۔۔۔ مِثْنَةٌ:

تجب کرنا۔۔۔۔۔ فُلَانٌ: درد مند ہونا۔ کہا جاتا
ہے "عَمَدَنِي الْأَمْرُ فَعَمَدْتُ" یعنی معاملے

نے مجھے درد مند کر دیا اور میں درد مند ہوا۔
أَعَمَدُ الشَّيْءِ: ستون لگانا۔

تَعَمَّدُ الْأَمْرُ: قصد کرنا۔۔۔۔۔ (وَأَعَمَّدُ)
بچہ کرنا۔ اِغْتَمَّدَ الْحَائِطُ وَعَلَى

الْحَائِطِ: دیوار پر ٹیک لگانا۔ اِعْتَمَدَةُ
وَأَعْتَمَدَ عَلَيْهِ: بھروسہ کرنا۔ کہا جاتا ہے

اِغْتَمَدَ لَيْلَةَ رَاتٍ فِي سَوَارٍ هُوَ كَرَّجَانَا۔

انْعَمَدَ الشَّيْءُ: ستون کے بل کھڑا ہونا۔

العَمَدُ: مصل کہا جاتا ہے "فَعَمَدَةٌ عَمَدًا وَ عَمْرٌ عَمِدٌ" جان بوجہ کر کیا۔ "وَفَعَلَهُ عَمْدٌ عَيْنٌ وَعَمَدًا عَلَيَّ عَيْنٌ" اس نے اس کو کوشش اور یقین کے ساتھ کیا۔

العَمِيدُ: وہ جگہ جس کو بارش نے ترک کر دیا ہو کہا جاتا ہے "هُوَ عَمِيدُ الثَّرَى" یعنی وہ بڑا فیاض ہے۔

العَمْدَةُ: جس پر ٹیک لگائی جائے۔ جس پر بھروسہ کیا جائے۔ لشکر کا پیغامبر۔ عَمْدُ العِمَادِ: جس کا سہارا لیا جائے عَمْدُ

وَعَمْدٌ: بلند عمارتیں۔ واحد العِمَادَةُ اور یہ عَمْدُ الوَلَدِ (یعنی پتھر دینا) سے اسم ہے۔ لشکر کا پیغامبر۔ اَهْلُ العِمَادِ: بلند عمارتوں والے۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ طَوِيلُ العِمَادِ"

فَلَانٌ كَمَا مَكَانِ زَائِرِينَ كَلِّ لَعَلَّ عَمَاتٍ هِيَ "هُوَ رَفِيعُ العِمَادِ" وہ شریف آدمی ہے۔ العَمُودُ: ستون۔ سہارا۔ لوہے کا ڈنڈا۔ اَعْمَدَةٌ وَعَمْدٌ وَعَمِدٌ: العَمُودُ: سردار۔ لشکر کا پیغامبر۔ رگ جو جگہ کو سیراب کرتی ہے۔ کان کا بڑا حصہ۔ سخت غمزہ۔ عَمُودٌ

البَطْنِ: پیٹہ۔ کہا جاتا ہے "ضَرْبَةُ عَلِيٍّ عَمُودٌ بَطْنِيهِ" یعنی اس کی پیٹھ پر مارا۔ عَمُودٌ البَيْتَانِ: ترازو کی ڈنڈی۔ عَمُودُ الصُّبْحِ: صبح کی روشنی۔ عَمُودُ النَّسَبِ: جو خط نسب پر ہو۔ کہا جاتا ہے "اسْتَقَامُوا عَلَيَّ عَمُودٌ زَالِيَهُمْ" یعنی ایسے طریقہ پر کہ جس پر بھروسہ کر سکتے ہیں اَهْلُ العَمُودِ: اَهْلُ العَمْدِ: وہ لوگ جو خانہ بدوش ہوں۔ العَمُودُ او الخَطُّ

العَمُودِيُّ عَمْدًا المُهَنْدِسِينَ: وہ خط جو دوسرے خط پر قائم ہو جس کے دونوں جانب دو زاویے برابر برابر نکلیں۔

بِتِ عَمُودِيٍّ يَخُطُّ عَمُودِيٍّ۔ العَمَائِدُ: فَا مَوْنَتِ عَمَائِدَةٍ. لَيْلَةُ عَمَائِدَةٍ: لمی رات۔

مَنْعَمَائِدَانِ: زاویہ قائم بناتے ہیں۔ ایک ان دو میں سے ایک دوسرے پر عمودی ہوتے

ہیں۔

العَمِيدُ: سخت غمزہ۔ وہ شخص جس کو عشق نے شکست دل کر دیا ہو۔ عَمِيدُ القَوْمِ: قوم کا سردار۔ عَمْدَاءُ عَمِيدِ الأَمْرِ: قوام امر۔

عَمِيدُ الوَجْعِ: درد کا مقام۔ العَمِيدُ: وہ مریض جو اپنی بیماری کی وجہ سے بیٹھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو اور اسے کلیوں کا سہارا لگایا جاتا ہو۔

المَعْمُودِيَّةُ: پتھر۔ العَمْدُ والعَمْدَانِيَّ: کامل ترین نوجوان۔ العَمِيدُ: نازک بدن لڑکا۔

عَمْرٌ (ن) عَمْرًا. المَنْزَلُ: باہلہ: آباد ہونا۔ المَنْزَلُ: آباد کرنا۔ صفت مفعولی مَعْمُورٌ: المَذَارُ: گھر تعمیر کرنا اور اسم العِمَارَةُ: ہے۔ بالمَسْكَانِ: اقامت کرنا۔ فَا اللّٰهُ: زندہ رکھنا۔ عَمَارَةٌ: اللّٰهُ مَنزِلَةٌ: آباد کرنا۔

عَمَرَ (ض و ن) عَمُورًا وَعَمَارَةً وَعَمْرًا اَنَا الرَّجُلُ بَيْتَهُ: لازم پکڑنا۔ عَمَرْتُهُ كَذَا: زندگی بھر کے لئے دینا۔ عَمْرًا وَعَمَارَةً: زبّہ: عبادت کرنا۔ خدمت کرنا۔ روزہ رکھنا۔ نماز پڑھنا۔ عَمْرًا وَعَمْرًا وَعَمَارَةً وَعَمِيرٌ (س) عَمْرًا وَعَمْرًا وَعَمَارَةً: لمی عمر پانا۔ عَمْرٌ (ك) وَعَمِيرٌ (س) عَمَارَةً: مال بہت زیادہ ہونا۔

عَمْرٌ وَعَمْرٌ المَنْزِلُ: آباد کرنا۔ عَمْرَةٌ وَعَمْرَةٌ اَرْضًا: زندگی بھر کے لئے دے دینا۔ عَمْرٌ الرَّجُلُ: لمی زندگی پانا۔ عَمْرَةٌ اللّٰهُ: زندہ رکھنا۔ عَمْرٌ الثَّوْبُ: کپڑے کو اچھا بنانا۔ جب تم کسی کو اللہ کی قسم دیتے ہو کہ فلاں کا کام عمر بھر کرے تو کہتے ہو۔ اَعْمَرَكَ اللّٰهُ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا. اَعْمَرَةَ المَكَانَ: آباد کرنے کے لئے دینا۔ اَعْمَرَ الأَرْضَ: آباد پانا۔ اَعْمَرَ عَلَيْهِ: مٹی کرنا۔

اَعْمَرَ المَكَانَ: قصد کرنا۔ زیارت کرنا۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ فُلَانٌ مُعْتَمِرًا" فلاں زیارت

کرنے کے لئے آیا "اِسْتَعْمَرْنَا نَادِيًا نَعْمُرُهُ" ہم نے ایک مجلس بنائی جس میں بیٹھے ہیں۔ اِعْتَمَرَ الرَّجُلُ: پگڑی باندھنا۔ اِسْتَعْمَرَةَ فِي المَكَانِ: آباد کرنا۔ جیسے نے اپنے بندوں کو زمین میں آباد کرنا چاہا۔ العَمْرُ: زندگی عَمَارًا: دین اور قسم میں کہا جاتا ہے "لَعْمُرِي" وَلَعْمُرِ اللّٰهِ وَعَمَرَ اللّٰهُ العَمْرُ: دانتوں کے درمیان کا گوشت۔

العَمْرَانُ: حلق کے کوے کے دونوں طرف لٹکا ہوا گوشت۔ العَمْرُ والعَمْرُ: زندگی۔ عربوں کے نزدیک عمر کا اندازہ چالیس سال کا تھا۔ العَمْرُ: مسجد۔ گرجا۔ دانتوں کے درمیان کا گوشت۔ سوڑھا۔

عَمْرٌ: علم ہے اور علیت و عدل کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔ خلیفہ ثانی کا نام ہے۔ العِمْرَانُ: سیدنا ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما۔ عَمْرٌ: علم ہے اور اس میں حالت نفی و جبری میں خلیفہ ثانی کے نام سے امتیاز کے لئے واؤ لگا یا جاتا ہے۔ عَمْرُونَ وَعَمْرُو وَعَمُورٌ: ام عَمْرٌ: بچوں کی کنیت۔ العَمْرَانُ: آبادی۔ العَمْرُ: مصل۔ دین۔ عورتوں کے سر ڈھانکنے کا رومال۔ العَمْرَةُ: ہر وہ چیز جو سر پر رکھی جائے جیسے تاج، پگڑی وغیرہ۔ اَبُو عَمْرَةَ: بھوک اور الفلاس کی کنیت۔ العَمْرَةُ: آباد مکان کا ارادہ اور اصطلاح شرع میں طواف اور سعی بین الصفا والمروة کا نام۔ عَمْرٌ وَعَمْرَاتُ. العَمَارُ: سلام۔ پھول جس سے شراب کی مجلس کو مزین کرتے ہیں۔ العَمَارَةُ: مصل۔ ہر وہ چیز جو سر پر رکھی جائے جیسے تاج، پگڑی وغیرہ۔ مزین کپڑے کا ٹکڑا جو خمیہ میں لگایا جاتا ہے۔ پھولوں کا دستہ جو

بادشاہ کو سلام کرتے ہوئے پیش کیا جائے۔
بزا قبیلہ۔ قبیلہ۔ جنگی جہازوں کا بیڑا۔

العنارة: مہل۔ جس سے مکان کی آبادی ہو۔
چھوٹا قبیلہ۔

العنارة: نمارت کی مزدوری۔
العنصری: وہ مکان یا زمین جس کو زندگی بھر کے لئے دے دیا جائے۔

مکان عجمیہ: آباد۔ ثوب عجمیہ: گف کپڑا۔

العنایر: فاجہ کارہنے والا ج غنار:
موت غامبرہ ج غوامیر۔ مکان غامبر:
آباد جگہ۔ تم کہتے ہو "تسرتھم غامیرین
بمکان کذا" یعنی میں نے ان کو فلاں جگہ
میں آباد چھوڑا۔ العنایر: بچو کا بچہ۔ ام غامیر:
بجو۔ غوامیر البیوت: سانپ وغیرہ۔ واحد
غامیر وغامیرہ۔

العجمیہ: شہد کا چھتہ۔ بزا قبیلہ۔ ج غمالو۔
العنار: صینہ مبالغہ قوی الایمان۔ بردبار۔
صاحب وقار۔ موت تک امر و نہی پر قائم
رہنے والا۔ اچھی تعریف والا۔

العنار: جنات جو مکانوں میں رہتے ہیں اور
یہ جمع ہے عامر کی۔
العنمر: آباد۔ خوش حال جگہ۔

الاستعمار: ایک ملک کا دوسرے ملک کے
حصے یا کھل ملک پر قبضہ کرنا۔
المستعمرة: نوآبادی (مولدہ)

العنمور: بکری کا بچہ۔ چھوٹی بھیڑ۔ ج
یعامیر۔

العنورد: ہر چیز کا لہبا۔ خوش۔ قوی سخت
مزاج مرد۔ شیراز۔ بھیڑ یا۔

العنوس: مرد قوی۔ العنوس: بکری کا بچہ
ج غنارینس۔

العنروط: چور۔ سرکش ج غنارط
وغناریط وغنارطة۔

العنروط: جوان۔ سبک۔ دلیر۔ بلا۔
مصیبت۔

غنس (ن) غنسا الكتاب: مٹنا۔

الانمر: دیدہ دانستہ جاہل بنا۔ غمس
واعمس الشئ: چھپانا۔

عجمس (س) وعمس (ک) عمنسا
وعمنسا وغموسا وعمناسة: یوم: سخت
ہونا۔ تاریک ہونا۔

عاصمة مغانسة: راز بنانا۔ دشمنی چھپانا۔
تعاصس: تعاقب کرنا۔ عنہ: نہ جاننے والا

ظاہر کرنا۔ کہا جاتا ہے "تعاصس علی" یعنی
اس نے ہم رکھا اور مجھ کو شہ میں رکھا۔

العنس والعناس والعنوس والعنيس:
مشکل کام۔ یوم عمناس: سخت دن۔ خراب
عمناس وعميس: سخت لڑائی۔ لیل عمناس
: بہت تاریک رات۔ العناس: قوی شیر۔
مصیبت ج غمس وعمنس۔

العنوس والعنایس: وہ شخص جو کاموں کو
نادانوں کے مانند بے باکانہ کرے۔

امر مغمس: سخت کام۔

عمنست (س) عمنسا عنینة: آکھ کا کزور
ہونا۔ چندھا ہونا۔ صفت مذکر أعمنس:
صفت مؤنث عمنساء ج عمنس فیہ

الکلام: کلام کا اثر کرنا۔

عمنسه (ن) عمنسا: بلا قصد مارنا.....
الولد: لڑکے کا ختمہ کرنا۔

عمنس وتعمنس عن الشئ: غافل ہونا.....
عمنسه الله: چندھے پن کو دور کرنا۔

استغمنسة: بے وقوف جانا۔

العمنشوش: انگور کا خوشہ جس میں سے کچھ
دانے کھائے گئے ہوں۔

عمنط (ن) عمنطا واعمنط عرصة:
عیب لگانا۔ بے آبرو کرنا۔

عمنق (ک) وعمنق (س) عمنقا
المکان او الطریق: دور ہونا۔ کشادہ اور لہبا

ہونا۔ صفت عمنیق ج عمنق وعمنق
وعمناق۔

عمنقت (ک) عمنقا وعمنافة البئر
ونحوها: گہرا ہونا۔ صفت عمنيقة ج
عمناق۔

اعمنق وعمنق واعمنق. البئر: کنوئیں کو گہرا
کرنا۔ کہا جاتا ہے "عمنق النظر فی

الامور" اس نے امور میں گہری نظر ڈالی۔

تعمنق فی الامر: معاملے کی تہ تک پہنچنے کی
کوشش کرنا..... فی کلامہ: خوب چرب
زبانی سے گفتگو کرنا۔

العمنق والعمنق والعمنق: گہرائی۔ العنق
والعمنق: جنگل کے اطراف سے جو بید ہو۔
ج اعمناق۔

العمنق: حق و استحقاق۔ کہا جاتا ہے "لفیہ
عمنق" یعنی اس کے لئے حق و استحقاق ہے۔
العمنقة: برتن کی تہ میں گھی کا میل۔

رجل عمیق الکلام: ایسا شخص جس کی بات
بہت گہری ہو۔

ععمل (س) عملا: کام کرنا۔ محنت کرنا.....
یلایس علی بلاد: عامل بنا۔ حاکم بنا.....

علی الصدقة: صدقہ جمع کرنے کی کوشش
کرنا..... البزق: بجلی کا لگا تار چمکانا۔ عملت
الکلمة فی الکلمة: ایک کلمہ کا دوسرے کلمہ
میں اثر کرنا۔ اعراب دینا۔

عمله: عمل کی اجرت دینا..... علی البلد:
عامل بنانا۔ حاکم بنانا۔ کہا جاتا ہے "ععمل

فلان علیہم" یعنی فلاں شخص ان کے اوپر
حاکم بنایا گیا۔

اعمله: عامل بنانا۔ حاکم بنانا۔ اعمل الرمح:
صدر نیزہ سے مارنا..... الآلة او السرای:

استعمال کرنا..... الکلمة فی الکلمة: کلمے کا
دوسرے کلمے پر اثر کرنا..... السرجل:

اجرت دینا۔
عاملة مغانلة: عمل کی تکلیف دینا۔ معاملہ
کرنا۔

تعمل. لکذا: عمل کو بداشت کرنا۔ من أجل
فلان او فی حاجتہ: کوشش کرنا۔ درپے

ہونا۔ تعامل. القوم: بعض کا بعض کے ساتھ
معاملہ کرنا۔

اعتمل: کام میں مضطرب ہونا۔ اثر قبول کرنا
اپنے لئے کام کرنا۔

اِسْتَعْمَلْتَهُ: عامل بنانا۔ عمل کرنے کو کہنا۔
استعمل الالة: آلہ استعمال کرنا۔۔۔۔۔ الثوب
: کپڑا استعمال کرنا۔ اِسْتَعْمِلْ فَلَانٌ: شاہی
اعمال میں سے کسی عمل کے لئے مقرر ہونا۔
العَمَلُ: مص۔ الفعل۔ بقصد۔ ارادۃ فعل
کرنا۔۔۔۔۔ والعمالیہ) وہ جس پر عامل والی
ہو۔ ج اععمال واعمال البلد: ملک کے
مضافات۔
العَمَلُ: کارگیر۔ پسندیدہ کارگیر۔ سرقی
عَمِلٌ: لگاتار چکنے والی بجلی۔
العَمِلَةُ: مَوْنٌ عَمِلٌ: وہ جو کیا جائے۔
العَمَلَةُ: ایک مرتبہ کا عمل۔ خیانت۔ چوری۔
العَمَلَةُ: عمل کی ہیئت۔ جو عمل کیا جائے۔
(..... والعملة) عمل کی اجرت اور عوام اس
کونقود کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔
العَمَالُ: قا۔ کام کرنے والا۔ وہ شخص جو کسی
کے امور مالی وغیرہ کا متولی ہو ج عَمَالُ
وعاملون وعَمَلَةٌ: رئیس۔ والی۔ حاکم۔
عَمَالُ الرُّمَحِ: نیزے کے پھل کے قریب کا
حصہ۔
العَمَالُ عِنْدَ النُّحَاةِ: نحو یوں کے نزدیک وہ
کلمہ جو دوسرے کلمہ کے آخر پر اعراب
واجب کر دے جیسے قام الولد۔
العَمَالُ بِالْيَمَاسِ: وہ مادہ جو قلیل مقدار میں
کیاوی اجسام میں ملایا جائے اس میں
جلدی اثر انداز ہو جائے اس کی مقدار میں
کمی نہ آئے شروع سے لے کر آخر تک۔
العَمَالَةُ: مَوْنٌ عَمِلٌ ج عَمَالَتٌ وَعَوَامِلُ
عَمَالَةُ الرُّمَحِ: نیزے کے پھل کے قریب کا
حصہ۔ العَوَامِلُ: پاؤں۔ کھیتی اور دائیں
کرنے کے تیل۔
العَمَالُ: صیغہ مبالغہ۔ مَوْنٌ عَمَالَةٌ.
العَمَالَةُ: عامل کا پیشہ۔ العَمَالَةُ والعَمَالَةُ
والعَمَالَةُ: عامل کی اجرت۔ عوام کہتے ہیں
العَمُولَةُ: کمیشن ایجنٹ۔
العَمُولُ: مزدور۔
العَمِيلُ عِنْدَ التَّجَارِ: ایجنٹ۔ آ رہتی۔

شَرِيكٌ عَمَلٌ۔ ج عَمَلَاءُ۔
السَّمْعَلُ: کارخانہ۔ کام کرنے کی جگہ ج
مَعَامِلُ۔
المُعَامَلَاتُ: کاروباری معاملات۔
احکام شرعیہ جن کا تعلق امور دنیاوی سے ہو۔
جیسے بیع و شراء کے احکام۔
المُسْتَعْمَلُ: مفع۔ استعمال کیا ہوا۔
الْيَعْمَلُ وَالْيَعْمَلَةُ: کام کرنے والا اونٹ
اونٹن ج يَعْمَلُ وَيَعْمَلَاتُ۔
عَمَنَ (ض) وَعَمِنَ (س) عَمْنَا بِالْمَكَانِ
: اقامت کرنا۔
عَمَنَ وَأَعْمَنَ الرَّجُلُ: ملک عمان میں جانا۔
کسی جگہ میں ہمیشہ رہنا۔
العَمُونُ: اقامت کرنے والا ج عَمْنُ۔
عَمَّةٌ وَعَمِيَةٌ (ف س) عَمَّهَا وَعَمَّوْهَا
وَعَمَّوْهِيَةٌ وَعَمَّهَانَا وَعَمَّانَةٌ: تھیر ہونا۔
گمراہی میں بھٹکانا۔ صفت عجمہ ج عَجْمُونُ
وعجمہ ج عَجْمَةٌ۔
عجمہ (س) عَمَّهَا الْمَكَانُ: بے نشان و بے
علامت ہونا۔ صفت مذکر أَعْمَهُ: صفت
مَوْنٌ عَمَّهَاءُ ج عَمَّهُ۔
عَمَّهُ فِی ظَلَمِ فَلَانٍ: ناحق ظلم کرنا۔
العَمَّهُ: مص۔ بصیرت کا فقدان۔
عَمِيٌّ يَعْمِيٌّ عَمِيٌّ: اندھا ہونا۔ دل کا اندھا
ہونا اور جاہل ہونا۔ عَنِ الشَّيْءِ وَعِنْدَهُ:
ہدایت نہ پانا۔ عَلَيَّهِ: مشتبہ ہونا۔ کہا جاتا ہے
"عَمِيَّتِ الْاَخْبَارُ عَنْ فَلَانٍ" یعنی پوشیدہ ہو
گئیں۔
عَمِيٌّ عَمَّانِيٌّ: اصرار کرنا۔ گمراہ ہونا۔
عَمِيٌّ يَعْمِيٌّ عَمَّانِيٌّ السَّحَابُ: بہہ پڑنا۔
السَّمُوْجُ: جھاگ پھینکنا فَلَانٍ: سخت گرمی میں
آنا۔
عَمِيٌّ يَعْمِيٌّ يَعْمِيٌّ: معنی پوشیدہ رکھنا
(وَأَعْمِيٌّ) الرَّجُلُ: اندھا کرنا۔ اندھا پانا۔
تَعَامَى: تکلف اندھا بننا۔
تَعَمَّى تَعَمَّى: اندھا ہونا۔
إِعْتَمَى إِعْتَمَاءً: الشَّيْءُ: چننا۔ قصد کرنا۔

العَمِيَّةُ والعَمِيَّةُ والعَمَّانِيَّةُ والعَمَّانِيَّةُ:
گمراہی۔ گمراہی پر اصرار۔
العَمِيَّةُ والعَمِيَّةُ: غرور۔ گمراہی۔
العَمُورُ: اندھا ج عَمُونُ: مَوْنٌ عَمِيَّةٌ ج
عَمِيَّاتٌ۔
العَمِيٌّ: اندھا ج عَمِيٌّ وَعَمَّانِيٌّ وَأَعْمَاءُ
وَعَمَّانَةٌ: مَوْنٌ عَمَّانِيٌّ: لاعلمی۔ جاہل۔ کہا
جاتا ہے "رَجُلٌ عَمِيٌّ الْقَلْبُ" یعنی جاہل
آدمی۔
العَمَّانِيَّةُ: بہت گرمیہ وزاری کرنے والی
عورت۔
العَمَّاءُ: بلند بادل۔ موسلا دھار برسنے والا
بادل۔
الأَعْمَّانِيَّانِ: سیلاب و آتش زدگی۔
السَّمْعِيَّةُ: بے نشان زمین۔ ج مَعَامِيٌّ۔
مَكَانٌ عَمِيٌّ وَأَعْمِيٌّ: ایسی جگہ جس میں
ہدایت نہ ملے۔
العَمَّانِيٌّ: وہ شخص جو اپنے راستے کو نہ دیکھتا
ہو۔
العَمَّانِيٌّ: مفع من الکلام: چیتان۔ پتیلی۔
عَمَنُ: حروف جر میں سے ہے اور معانی ذیل
میں مستعمل ہے۔
(۱) مجاوزة: جیسے تَرَحَّلُ عَنْ مَكَانٍ فِيهِ
ضَيْمٌ: اس جگہ سے چل دے جہاں ظلم ہو۔
(۲) بدل جیسے يَوْمٌ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ
نَفْسٍ شَيْئًا: وہ یوم جس میں کوئی نفس کسی نفس
کا بدلہ نہیں دے گا۔ (۳) تَعْلِيلٌ: جیسے مَا
فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا عَنِ اضْطِرَّارٍ: اس نے اس
کو مجبور ہو کر کیا۔ (۴) بَعْدُ: جیسے عَنْ قَلِيلٍ
تَسْرِيٌّ: تھوڑی دیر کے بعد تجھے معلوم ہو جائے
گا۔ (۵) اسْتِغْثَاءٌ جیسے أَحْيَيْتُ الْإِحْسَانَ
إِلَى الْفُقَرَاءِ عَنْ كَثْرَةِ الصَّلَاةِ: میں نے
فقراء کے ساتھ اچھے سلوک کو کثرت نماز پر
ترجیح دی اور کبھی اسم ہو کر جانب کے معنی میں
آتا ہے اور اس وقت اس پر حرف جر داخل
ہوتا ہے جیسے "جَلَسَ مِنْ عَنِ يَسَارِ
الْخَلِيفَةِ" خلیفہ کی بائیں جانب بیٹھنا۔

عَنْ (ن من) عَسَا وَعَسَا وَعَسَا وَعَسَا وَعَسَا وَعَسَا وَعَسَا وَعَسَا
 الشَّيْءُ: سامنے ظاہر ہوتا۔ پیش آتا۔ عَنْ عَنِ
 الشَّيْءِ: اعراض کرنا۔ عَنْ فُلَانًا: گالی دینا۔
 عَنْ وَعَسَى الْكِتَابُ: عنوان لکھنا۔ وَعَسَيْتُ
 الْكِتَابَ: ایک نوں کو یا سے بدل کر بھی کہتے
 ہیں۔
 عَنْ وَعَسَى وَأَعَى الْبَلْحَامُ: لگام میں ڈوری
 لگانا۔
 عَنْ وَأَعَى الْفَرَسِ: گھوڑے کو لگام سے
 روکنا۔
 عَانَةٌ مَعَانَةٌ وَعَانًا: مقابلہ کرنا۔
 الْعَانِيُّ: فاجہ۔ لمبی رسی۔ پھیلا ہوا بادل۔
 الْعَانَةُ: مؤنث۔ الْعَانُ: بادل۔
 الْعِنَةُ: بری اونٹ یا گھوڑے کے لئے لکڑی کا
 بازہ۔ باندی رکھنے کا چولہا۔
 الْعِنَانُ: بادل۔ وَالْعِنَانَةُ: بادل کا ایک ٹکڑا۔
 عِنَانُ السَّمَاءِ: آسمان کی بلندی۔ عِنَانُ
 الذَّيَارِ: گھر کا کنارہ۔ گھر کا گرد گرد۔
 الْعِنَانُ: مہم۔ لگام کی رسی۔ حِ اَعْنَةٌ وَعَسَى:
 کہا جاتا ہے "هُوَ قَصِيرُ الْعِنَانِ" یعنی وہ بے
 خیر آدمی ہے۔ "وَرَجُلٌ طَوِيلُ الْعِنَانِ"
 شریف آدمی "وَأَبْسَى الْعِنَانِ" خود دار۔
 و"إِسْلَاءُ عِنَانِهِ" جبکہ اپنی کوشش کو پہنچ
 جائے۔ "وَذَلَّ عِنَانَهُ" یعنی تابع و فرمانبردار
 ہو گیا۔ و"هُمَا يَسْخِرَانِ فِي عِنَانٍ" جبکہ
 دونوں فضیلت وغیرہ میں برابر ہوں۔
 "وَجَسْرَى الْفَرَسِ عِنَانًا" یعنی ایک چکر
 دوڑا۔ "وَكَيْسَا فِي عِنَانِهِ" یعنی اپنے چکر میں
 ٹھوکر کھا گیا۔ "وَأَرْخَ مِنْ عِنَانِهِ" یعنی اس کو
 ڈھیل دے دو۔ و"شَرَكَةُ الْعِنَانِ": دو
 آدمیوں کا مخصوص مال میں شرکت کرنا۔
 الْعِنَانُ: سامنے آنے والی چیز۔
 الْعَسْنُ: سامنے آنے والی چیز۔ کہا جاتا ہے
 "عِنَانَاكَ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا" انتہائی یہ ہے کہ تم
 ایسا کرو۔
 الْإِعْسَانُ: درخت کے اطراف۔ أَعْسَانُ
 السَّمَاءِ: آسمان کے اطراف۔ اَفْعُ۔

الْعِنَانُ: بہت سہقت لے جانے والا۔
 الْعَسْنُ: الایعنی امور میں دخل دینے والا۔
 خَطِيبٌ: مؤنث مَعْنَةٌ.
 الْمَعْنُونُ: مجنون۔ پاگل۔
 عَسَبُ الْكُفْرَانِ: انکوری تیل میں انگور آتا۔
 الْعَسْبُ: انگور۔ حِ اَعْنَابُ: ایک دانے کو
 عِنْبَةٌ: کہتے ہیں۔
 الْعَسْبُ: انگور بیجے والا۔ عَسْبُ الشَّغْلَبِ:
 مکوے۔
 عَسْبُ الشَّغْلَبِ: سفید پتوں والی سفید پھولوں
 والی دوائی کا نام۔
 عَسْبُ الذُّبِّ: چیزے کو رگٹنے کے لئے ایک
 پودا جس کو طب میں اسہال کے ضد سمجھا جاتا
 ہے۔
 الْعَسْبِيَّةُ: انگور جیسا ایک پھل۔
 الْعَسَابُ وَالْأَعْنَابُ: بڑی ناک والا۔
 الْعَسَابُ: عَسَابُ: ایک دوا کا نام۔ واحد
 عَسَابَةٌ.
 عَسْبَرُ الشَّيْءِ: عَمْرُ سے خوشبودار کرنا۔
 الْعَسْبَرُ: ایک قسم کی خوشبو۔ زعفران۔ ایک قسم
 کی بڑی مچھلی۔ ذُحَالُ جو عَمْرُ مچھلی کی کھال
 سے بنائی جاتی ہے۔ حِ عَسَابِرُ.
 عَسْبَرُ الشَّيْءِ: عَسْبَرُ: سردی کی شدت
 عَسْبَرَةُ الْقَدْرِ: پیاز۔
 الْعَسْبَرِيُّ: عَمْرُ سے معطر کی ہوئی شراب۔
 عَسْبَتْ (س) عَسْبَتَا: دشواری میں پڑنا۔
 مصیبت سے ہلاک ہونا۔ گناہ کرنا۔ الشَّيْءُ
 خَرَابٌ وَفَاسِدٌ هُوَا..... الْعَسْطُمُ: درستی کے
 بعد ٹوٹ جانا۔ صفت عَسْبَتْ.
 عَسْبَتَةٌ: بختی کرنا۔ ایسی چیز لازم کرنا جس کا ادا
 کرنا دشوار ہو۔ عَسْبَتْ الشَّيْءِ الْعَسْطُمُ
 الْمَجْبُورُ: درست شدہ ہڈی کو توڑ دینا۔
 عَسْبَتْ فِي الْعَجَلِ: پہاڑ پر چڑھنا۔
 أَعْسَتْ الْجَاهِلُ الْكَبِيرُ: جڑے ہوئے کو پھر
 توڑنا۔ ٹوٹے ہوئے کی دیکھ بھال نہ کرنے
 کی وجہ سے فساد زیادہ ہونا۔ الرَّاكِبُ
 الْمَذَابَةُ: جانور پر ختی سے زیادہ لادنا۔

الرَّجُلُ: ہلاکت میں ڈالنا۔
 تَعَسْتَهُ: تکلیف پہنچانا۔ کسی کی اغزش کو
 ڈھونڈنا۔ تَعَسَتْ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ فِي
 السُّؤَالِ: بطریق تلمیس سوال کرنا۔
 الْعَسْوَاتُ: دشوار گزار نیلہ۔
 عَسْتَرُ عَسْتَرَةً: لڑائی میں بہادری کرنا۔ عَسْتَرَةً
 بِالرُّمْحِ: تیزہ مارنا۔ عَسْتَرُ الْعَسْتَرُ: بکھی کا
 بچھنا۔
 الْعَسْتَرُ وَالْمَعْتَرُ وَالْعَسْتَرُ: بکھی۔ نیلی بکھی۔
 واحد عَسْتَرَةٌ.
 الْعَسْتَرَةُ: سب سے معلقات کے شاعروں میں سے
 ایک شاعر کا لقب جس کی بہادری کی وجہ سے
 لوگوں کے لئے ضرب المثل بن گیا۔
 عَسْتَلُ الشَّيْءِ: ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔
 الْعَسْتَلُ: سخت۔ ضَبَاعُ عَسَاتِلُ: شکار کو ٹکڑے
 ٹکڑے کر دینے والے بچو۔
 الْعَسْفَةُ وَالْمَعْفَةُ وَالْعَسْفَةُ: جلی نام۔ ایک
 مخصوص گھاس جب کہ وہ خشک اور سیاہ ہو
 جائے۔ حِ عَسْفَاتُ.
 الْعَسْفُوتَةُ وَالْمَعْفُوتَةُ: بمعنی عَسْفَةُ حِ عَسْفَاتِي
 الْعَسْفُوتَةُ: ٹھوڑی کے بال۔
 عَسْفَجُ (ن ض) عَسْفَجَا وَأَعْفَجَ الشَّيْءُ: بچھنا۔
 الدَّلْوُ: ڈول کو رسی سے باندھنا۔
 الْعَسْفَجُ: پیٹھ کا درد۔ رسی جس کو بڑے ڈول
 کے نیچے باندھتے ہیں۔ حِ اَعْفَجَةُ وَعَسْفَجُ.
 عَسْفَجَةُ: الھوُذَجُ: ہودے کے دروازے کا
 بازو۔
 الْعَسْفَجُ: بڑا۔
 الْعَسْفَجُ: جگلی ریحان۔
 الْعَسْفُوجُ: عمدہ گھوڑا۔ عمدہ اونٹ۔ اذِل
 جَوَانِي حِ عَسْفَجِيحُ.
 عَسْفَجَرُ عَسْفَجَرَةً: ہونٹوں سے سیٹی بجانا۔
 الْعَسْفُورَةُ: شیش کا غلاف۔
 الْعَسْفُجَةُ: بڑی موٹی سیٹی۔ آکھڑ مرد۔
 عَسْدُ: ظرف مکان و ظرف زمان۔ جیسے
 وَقَفْتُ عِنْدَ الْبَابِ وَسَافَرْتُ عِنْدَ مَغِيبِ
 الشَّمْسِ: اور میں نے: کے داخل ہونے سے

مجرور ہوتا ہے جیسے اَتَيْتُ مِنْ عِنْدِهِ.

عِنْدَ (ن ض) کو عیند (س) و عِنْدَ (ک)

عُنُوْدًا عَنِ الطَّوْبِقِ اَوْ الْقَصْدِ: تبادول کرنا۔

ہٹ جانا۔ مائل ہونا..... الرَّجُلُ: دیدہ

والتحق کی مخالفت کرنا۔ صفت عیند ج

عُنْدُ (.....) وَاغْنَمَ العِرْفَى: رگ سے خون

لگا تار بہنا۔ اَغْنَدَ فُلَانًا: مقابلہ کرنا۔

عِنْدَ (ن) عُنُوْدًا عَنِ اَصْحَابِهِ: سفر میں

علیحدہ ہو جانا۔

عَانَدَهُ مُعَانَدَةً وَعِنَادًا: علیحدہ ہونا۔ مقابلہ

کرنا..... الشَّيْءُ: لازم ہونا..... الرَّجُلُ: کسی

کے جیسا کام کرنا۔

تَعَانَدَ القَوْمُ: بعض کا بعض کے ساتھ مخالفت

کرنا۔

اِسْتَعْنَدَ الفَرَسُ: گھوڑے کا سرکشی کرنا۔ منہ

زور ہونا..... العُقَى: غالب ہونا..... فُلَانًا:

قصد کرنا۔

العَيْنِدُ: فا۔ میان روی سے بننے والا۔ ج

عُنْدُ: عَوَانِدُ: کہا جاتا ہے "طَعْنَةُ طَعْنًا

عَانِدًا" اس نے اس کو دائیں بائیں سے نیزہ

مارا۔ دَمَّ عَانِدٌ: ایک جانب سے پینے والا

خون۔

العِنَادِي: عنادی مذہب کو ماننے والا۔

العِنَادِيَّةُ: وہ لوگ جو چیزوں کو حقیقت ماننے

سے انکار کرتے ہیں۔

العِنْدُ: دل۔ معقول۔

العِنْدُ: العِنْدُ والعِنْدُ: گوشہ۔

العِنُوْدُ: میان روی سے بننے والا ج عُنْدُ

کہا جاتا ہے "سَحَابَةٌ عِنُوْدٌ" سوسلا دھار

برسنے والا بادل۔ عَقِيَّةٌ عِنُوْدٌ: دشوار گزار

گھائی۔ رَجُلٌ عِنُوْدٌ: کسی کے ساتھ نہیں بلکہ

تہا اترنے والا مرد۔

عُنْدَرِ المَطَرِ: سخت بارش ہونا۔

عُنْدَلٌ عُنْدَلَةٌ: بلبل کا چچھانا۔

العُنْدَلِيْبُ: بلبل۔ ج عنادل.

العُنْدَمُ (دم الاخوين)

عُنْزَه (ن) عُنْزًا: نیزہ مارنا۔ عُنْزٌ وَاغْتَنَزَ

وَاسْتَعْنَزَ عَنْهُ: علیحدہ ہونا اور ایک گوشہ میں

اُتْرَا۔

اَعْنَزَ الشَّيْءُ: جھکانا۔

تَعْنَزُ: لوگوں سے علیحدہ ہونا۔

العُنْزُ: مہس۔ بکری۔ مادہ چکور۔ مادہ شکرہ۔

ہرنی۔ مادہ گلہ ج عِنَازٌ وَاغْنَزُ وَاغْنُوْزُ.

العُنْزَةُ: بکری۔

العُنْزَةُ: ذُوْدُ اَجَسٍ کے نیچے پھیل لگا ہوا۔ عُنْزَةُ

الْفُقْأَسِ: پھاوڑے کی دھارج

عُنْزٌ وَعُنْزَاتُ.

اَلْعُنْزُوقَةُ: جمولا۔ اس سے فعل مشتق غنوز

نکالا گیا ہے۔

العُنُوْزُ وَالْعِنْيُزُ: مصیبت میں مبتلا۔

عُنْسٌ (ض) عُنْسًا العُوْدُ: لکڑی کو جھکانا۔

مُوْرَا۔

عُنْسَتُ (ن ض) وَاغْنَسْتُ (س) عُنُوْسًا

وَعِنَاْسًا وَعُنْسَتُ وَعُنْسَتُ وَعُنْسَتُ

السَّجَارِيَّةُ: لڑکی کا بالغ ہونے کے بعد دیر تک

بلاشادی کے رہنا۔ صفت عَانِسٌ ج عَوَانِسُ

وَعُنْسٌ وَعُنْسٌ وَعُنْسٌ وَعُنُوْسٌ عُنْسُ الرَّجُلِ:

بغیر نکاح کے بڑی عمر تک رہنا۔ صفت

عَانِسٌ. اَعْنَسَ الشَّيْءُ: متغیر کرنا۔ اَعْنَسَ

الشَّيْءُ وَجَهَةٌ: بڑھاپے کا چہرے کو بدل

دینا۔ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ لَمْ تَعْنَسْ اَوْ لَمْ

تَعْنَسِ السِّنُّ وَجَهَهُ" یعنی فلاں کی عمر نے

بڑھاپے کی طرف رخ نہیں کیا۔ وَاغْنَسَ

السَّجَارِيَّةَ اَهْلُهَا: لڑکی کو اس کے گھر والوں

نے نکاح کرنے سے روک رکھا۔ صفت

مُعْنَسَةٌ ج مُعْنَسَاتٌ وَمُعَانِسٌ.

عِينَسٌ (س) عُنْسًا: ہر وقت آئینہ میں

دیکھنا۔

العُنْسُ: مہس۔ عقاب۔ قوی اونٹنی ج

عِنَاسٌ وَعُنُوْسٌ.

العِنَاسُ: آئینہ ج عُنْسٌ.

عُنْسٌ (ن ض) عُنْسًا. العُوْدُ: لکڑی کو

مُوْرَا۔ جھکانا۔ الرَّجُلُ: تکلیف پہنچانا۔

عُنْسًا مَعَانَسَةً وَعِنَاْسًا: لڑائی میں ایک

دوسرے سے لپٹ جانا۔ مفاخرت کرنا۔

اِعْتَنَسَهُ: لڑائی میں ایک دوسرے سے لپٹ

جانا۔ ظلم کرنا۔

تَعَانَسَا: ایک دوسرے سے معاف کرنا۔

تَعُنَسَ المَالُ: ہر طریقہ سے مال جمع کرنا۔

اَلْاَعْنَسُ: چھانگیوں والا۔ چھینکا۔

العُنْصُرُ وَالْعُنْصُرُ: اصل۔ کہا جاتا ہے "اِنَّهُ

الْكُرَيْمُ الْعُنْصُرُ" وہ اصل شریف ہے۔

حَسْبُ۔ ہمت۔ حاجت۔ مصیبت۔ بیوی۔

مادہ جسم بیض۔ ج عِنَاصِرٌ: اور قد ماہ کے

نزدیک عناصر چار تھے۔ آگ پانی ہوا اور

مٹی۔

عِيْنِدُ العُنْصُورَةِ: نصرائیوں کی ایک عید ہے جو

عید فصح کے پچاس دن کے بعد ہوتی ہے۔

اور یہودیوں کے نزدیک طور میں پر احکام

شریعت کے نزول کی یادگار میں عید ہے۔

العُنْضَلُ وَالْعُنْضَلُ وَالْعُنْضَلُ وَالْعُنْضَلُ

: جنگی پیاز۔ جس کو بصل الفار بھی کہتے ہیں۔

العُنْصُورَةُ وَالْعُنْصُورَةُ وَالْعُنْصُورَةُ وَالْعُنْصُورَةُ

وَالْعُنْصَاةُ: متفرق ٹھوڑے سے بال یا گھاس

وغیرہ ج عِنَاصُ.

العُنْظَبُ وَالْعُنْظَبَانُ وَالْعُنْظُوبُ: ایک قسم

کی مٹی۔ مَوْنَتٌ عُنْظُوبَةٌ.

عُنْظِي يَه: ہٹھا کرنا۔ بری بات سنانا۔ گالی

دینا۔

العُنْظُوَانُ وَالْعُنْظِيَانُ: بخش بننے والا۔

العُنْظُوَانُ: ایک ترش قسم کی نباتات۔

العُنْظُوَانَةُ: واحد ہے عُنْظُوَانُ: کی مادہ۔

عُنْظِي يَه: ہٹھا کرنا۔ بری بات سنانا۔ گالی

دینا۔

العُنْظُوَانُ وَالْعُنْظِيَانُ: بخش بننے والا۔

العُنْظُوَانُ: ایک ترش قسم کی نباتات۔

العُنْظُوَانَةُ: واحد ہے عُنْظُوَانُ: کی مادہ۔

عُنْظِي يَه: ہٹھا کرنا۔ بری بات سنانا۔ گالی

دینا۔

العُنْظُوَانُ وَالْعُنْظِيَانُ: بخش بننے والا۔

العُنْظُوَانُ: ایک ترش قسم کی نباتات۔

العُنْظُوَانَةُ: واحد ہے عُنْظُوَانُ: کی مادہ۔

عُنْظِي يَه: ہٹھا کرنا۔ بری بات سنانا۔ گالی

دینا۔

العُنْظُوَانُ وَالْعُنْظِيَانُ: بخش بننے والا۔

العُنْظُوَانُ: ایک ترش قسم کی نباتات۔

العُنْظُوَانَةُ: واحد ہے عُنْظُوَانُ: کی مادہ۔

عُنْظِي يَه: ہٹھا کرنا۔ بری بات سنانا۔ گالی

دینا۔

العُنْظُوَانُ وَالْعُنْظِيَانُ: بخش بننے والا۔

العُنْظُوَانُ: ایک ترش قسم کی نباتات۔

العُنْظُوَانَةُ: واحد ہے عُنْظُوَانُ: کی مادہ۔

عُنْظِي يَه: ہٹھا کرنا۔ بری بات سنانا۔ گالی

دینا۔

العُنْظُوَانُ وَالْعُنْظِيَانُ: بخش بننے والا۔

العُنْظُوَانُ: ایک ترش قسم کی نباتات۔

العُنْظُوَانَةُ: واحد ہے عُنْظُوَانُ: کی مادہ۔

عُنْظِي يَه: ہٹھا کرنا۔ بری بات سنانا۔ گالی

دینا۔

العُنْظُوَانُ وَالْعُنْظِيَانُ: بخش بننے والا۔

العُنْظُوَانُ: ایک ترش قسم کی نباتات۔

العُنْظُوَانَةُ: واحد ہے عُنْظُوَانُ: کی مادہ۔

عُنْظِي يَه: ہٹھا کرنا۔ بری بات سنانا۔ گالی

دینا۔

العُنْظُوَانُ وَالْعُنْظِيَانُ: بخش بننے والا۔

العُنْظُوَانُ: ایک ترش قسم کی نباتات۔

وَعَلِيَّةٌ: بختی کرنا۔ صفت غنیف ج غنْف.
 غَنَفَةٌ وَأَغْنَفَةٌ: بختی سے معاملہ کرنا۔ وَاغْنَفَةٌ:
 بختی سے جھڑکنا۔ عَنَابٌ: عتاب کرنا۔ أَعْنَفُ الْأَمْرِ:
 بختی سے لینا۔
 اِغْتَنَفَ الْأَمْرُ: بختی سے لینا۔ الشُّيْ: شروع
 کرنا۔ المجلس: سے پھر جانا۔
 العَنْفُ والعَنْفُ والعَنْفُ: بختی۔ سخت دلی۔
 العَنْفَةُ والعَنْفَةُ: ابتدا۔ شروع۔
 الاغْنَفُ: بختی سے پیش آنے والا۔
 غَنْفَوَانُ الشَّبَابِ وَغَنْفُوَةٌ: ابتدائی جوانی۔
 غَنْفَوَانُ الخَمْرِ: شراب کی تیزی۔
 المنغَفَةُ: بختی کا سبب۔
 تَغْنَفُضٌ: ڈبک مارنا۔ شخی بگھارنا۔
 العَنْفَقَةُ: واڑھی پچ۔ ج عنافق.
 عَنِقُ (س) عَنَقًا: لمبی گردن والا ہونا۔ صفت
 أَعْنَقُ.
 عَنَقٌ: طلع النخل: کھجور کے شلوڈ کا لمبا
 ہونا۔ عَنَقُهُ: گردن پڑنا۔ عَنَقٌ عَلَيْهِ: چلنا
 اور گردن اٹھا کر دیکھنا۔
 عَانَقَةٌ مَعَانِقَةٌ وَعِنَاقٌ: بغل گیر ہونا۔ گلے
 لگانا۔ عَانَقَتِ الْإِبِلُ: تیز چلنا۔
 أَعْنَقُ: الزُّرُوعُ: کھیتی کا لمبا ہونا۔ خورش کلنا۔
 الكَلْبُ: کتے کی گردن میں پید ڈالنا۔ النَّجْمُ
 : ستارہ کا فروب ہونا۔ أَعْنَقَتِ الْيَلَادُ: دور
 دور ہونا۔ الدَّابَّةُ: جانور کا چوڑے قدم
 ڈال کر تیز چلنا۔ السَّرِيحُ: ہوا کا شئی کو
 اڑانا۔
 تَعْنَقُ الْبَيْرُوتُوعُ: جنگلی چوہے کا بل میں گھسنا۔
 تَعَانَقُ: الرَّجُلَانِ: ایک کا دوسرے سے گلے
 ملانا۔
 اِغْتَنَقَ: الشُّيْ: لازم ہونا۔ بختی سے پڑنا۔
 اِغْتَنَقَ الرَّجُلَانِ: لڑائی وغیرہ میں ایک کا
 دوسرے کے گلے کو پکڑنا۔
 العُنُقُ والعُنُقُ: گلا (مذکر ہے اور مؤنث بھی
 مستعمل ہے) ج اغناق. وَعُنُقُ كُلِّ شَيْءٍ:
 ہر چیز کا اول۔ کہا جاتا ہے مَسَاتِ فُلَانٌ فِي
 عُنُقِ الضَّيْفِ "وہ گرمی کی ابتدا میں مر گیا

"قَدْ أَخَذَ بِعُنُقِ السَّيِّئِينَ" وہ ساٹھ سال کی
 ابتدا میں پھنچ گیا۔ "وَكَانَ ذَلِكَ عَلَيَّ عُنُقِي
 السُّنْهُرُ" وہ زمانہ قدیم سے تھا۔ "وَلَا عُنُقِي
 فِي الخَيْرِ" اس کے لئے پہلی ہی نیکی میں
 سبت ہے۔ "وَهُمْ عُنُقِي الْيَكُ" وہ لوگ
 تیری طرف مائل ہیں۔ تیرے منتظر ہیں۔
 والعُنُقُ: رئیس لوگ۔ جماعت۔
 العُنَاقِيَّةُ: سفید پھولوں والی زمین پر ایک
 ویل۔
 العُنُقُ: مص۔ جانور کی تیز چال۔
 العُنَاقِي: بکری کا بچہ سال پورا ہونے سے
 پہلے۔ ج اَعْنَقُ وَعُنُقُ. عُنَاقِي الْأَرْضِ:
 بٹی کی قسم کا ایک شکاری جانور۔ العُنَاقِي:
 مصیبت (.....) والعنافة: بختی و محرومی۔
 الاغْنَقُ: لمبی گردن والا۔
 العَنْقَاءُ: أَعْنَقِي: کامونٹ۔ ج عُنُقِي. عَنْقَاءُ
 مُغْرِبٍ والعَنْقَاءُ الْمَغْرِبِ وَالْمَغْرِبَةُ: ایک
 فرضی پرندہ کا نام۔ مصیبت۔ ٹیلہ کی چوٹی۔
 کسی چیز کی ہلاکت و بربادی کی خبر دینی ہوتی
 ہے تو کہتے ہیں خَلَقْتُ بِهِ فِي الحَوَى عَنْقَاءُ
 مُغْرِبٍ: یعنی عناقہ مغرب اس کو نضواء آسمانی
 میں لے کر اڑا۔ هَضْبَةُ عَنْقَاءُ: بلند ٹیلہ۔
 العَانِقَاءُ: جنگلی چوہے کا سوراخ۔
 العِنِيقُ: گردن۔ بغل گیر ہونے والا۔
 الْمُعْنَقُ: تیز دوڑنے والا۔ زمین کا سخت و
 بلند حصہ۔ لمبی گردن والا۔ ج مَعَانِيقُ.
 المَعْنَاقُ: عمدہ گردن والا گھوڑا یا تیز دوڑنے
 والا گھوڑا۔ ج مَعَانِيقُ.
 المَعْنَقَةُ: پیدہ۔ ہار۔
 عُنُقُشُ: بالشی: چمٹ جانا۔
 تَعْنَقُشُ بِهِ: سخت ہونا۔ بچ کھانا۔
 عُنْكَ (ن) عُنْكَ وَعُنُوكُمَا وَتَعْنُكَ
 الرَّجُلُ: ریت کا ڈھیر ہو کر بلند ہونا۔ صفت
 عَنِيكُ: ج عُنْكَ. عُنْكَ الْبَابِ:
 دروازہ بند کرنا۔ السُّرْجُلُ: سفر کرنا۔
 الفرس: حملہ کرنا اور پھرنا۔
 عُنْكَةٌ: ملامت کرنا اور مشقت میں ڈالنا۔

أَعْنَكَ: الرَّجُلُ: تودہ ریگ میں پڑنا۔
 الْبَابُ: دروازہ بند کرنا۔
 الْعُنْكَ: تودہ ریگ۔
 الْعُنْكَيُوتُ: بکری ج عُنَاكِبُ وَعُنْكَوَاتُ
 الْعُنْكَ: بکری ج عُنَاكِبُ وَعُنَاكِبُ.
 الْعُنْكَيَةُ وَالْعُنْكَيَاةُ وَالْعُنْكَبَاةُ: مادہ بکری ج
 عُنَاكِبُ وَعُنَاكِبُ.
 الْعُنْكَيُوتِيَاةُ: بکریوں کی جماعت۔
 عُنْمُ: النَّبَاتُ: پورے کو عُنْمُ سے رنگنا (دیکھئے
 عُنْمُ).
 أَعْنَمَتِ الْمَاشِيَةُ: جانور کا عُنْمُ کو چرنا۔
 (دیکھئے عُنْمُ).
 الْعُنْمُ: ایک درخت ہے جس کا پھل سرخ
 رنگ کا ہوتا ہے اور جس سے رنگے ہوئے
 پوے کو تشبیہ دیتے ہیں۔ واحد الْعُنْمَةُ.
 الْعُنْمُ: انور کی تیل کے دھاگے جوئی کی
 لکڑیوں سے لپٹ جاتے ہیں۔
 الْعُنْمَةُ: انسان کے ہونٹ کا پھٹن۔
 الْعُنْمِيُّ: سرخی آمیز خوبصورت چہرہ۔
 الْعُنْيُومُ: نرمی کا۔
 عُنَا يَعْنُو عُنَاءً وَعُنْوًا: لَهُ: خضوع کرنا۔
 جھکتا۔ فرمانبردار ہونا۔ ذلیل ہونا۔ صفت
 عُنَانٌ وَعُنْيِيٌّ: مؤنث عُنَانِيَةٌ وَعُنْيَةٌ.....
 الشُّيْ: ظاہر کرنا۔ عُنِبَ الْأَرْضُ بِالنَّبَاتِ:
 اگانا۔ عُنَاهُ الْأَمْرُ: عُنْمُ میں ڈال دینا۔ عُنَا
 الْأَمْرِ عَلَيْهِ: دشوار ہونا۔ عُنِبَ الْأُمُورُ:
 بفلان: نازل ہونا۔ (.....) عُنْوًا: الْكِتَابُ:
 عُنْوَانٌ لِكِتَابٍ: خط پر پتہ لکھنا۔
 عُنَا يَعْنُو عُنْوَةً: زبردستی لے لینا۔ صلحا لینا۔
 عُنَا يَعْنُو وَعُنِيٌّ يَعْنِي عُنَا: فِي الْقَوْمِ: قیدی
 ہونا۔ صفت عَانُ ج عُنَاةٌ مؤنث غَايِبَةٌ ج
 غَايِبَاتٌ وَعُونٌ.
 عُنِيٌّ تَعْنِيَةُ الرَّجُلِ: قید کرنا۔
 أَعْنَى اِغْنَاءُ: الرَّجُلُ: فرمانبردار کرنا۔ ذلیل
 کرنا۔ أَعْنَتِ الْأَرْضُ النَّبَاتَ: اگانا۔
 الْعَانِي: بہتسا ہوا خون یا پانی۔

العِنُونُ والعَنَاءُ: گوشہ۔ کنارہ۔ ج اَعْنَاءُ کہا جاتا ہے "جَاءَ نَا اَعْنَاءُ مِنَ النَّاسِ" ہمارے پاس مختلف قبائل کے لوگ آئے۔

عَنْوَنٌ عَنْوَةٌ: دیاچہ لکھنا۔

عُنُوَانُ الْكِتَابِ وَعِنُوَانُهُ وَعُنْيَانُهُ وَعَيْنَانُهُ: دیاچہ کتاب۔ "وَعُنُوَانُ كِتَابٍ شَيْءٌ" وہ جس کے ظاہر سے باطن کا حال معلوم ہو جائے کہا جاتا ہے "الظَّاهِرُ عُنُوَانُ الْبَاطِنِ"۔

عَنِى يَعْنى عَنِى الْاَمْرُ لِفُلَانٍ: واقع ہونا۔ نازل ہونا۔ فِيهِ الْاَكْمَلُ: مفید ہونا۔

الْاَرْضُ بِالْبَيَاتِ: اگانا (..... عَنِى وَعَيْنَانَةٌ) بِمَا قَالَتْ كَذَا: مراد لینا۔

عَنِى اللّٰهُ بِهِ عِنَايَةٌ: حفاظت کرنا۔

عَنِى يَعْنى عِنَايَةٌ وَعِنَايَةٌ وَعَنِى الْاَمْرُ: فُلَانًا: مشغول کرنا۔ فکر مند کرنا۔ عَنِى بِالْاَمْرِ وَعَنِى بِهِ يَعْنى عَنِى: مشغول ہونا۔ فکر مند ہونا۔ مشقت لاحق ہونا۔ صفت عَسَانَ وَعَنِى۔

عَنِى يَعْنى عَنِى الْاَكْمَلُ فِيهِ: مفید ہونا۔

عَنِى يَعْنى عِنَاءٌ: جھکنا۔

عَنِى تَعْينَةٌ وَأَعْنَى اِعْنَاءُ الرَّجُلِ: تکلیف پہنچانا۔ امر دشوار کی تکلیف دینا۔

الْكِتَابُ: دیاچہ لکھنا۔ کہا جاتا ہے "مَا اَعْنَى شَيْئًا" یعنی کسی چیز کو فائدہ نہیں دیا۔

عَسَانِي مَعَانَاةَ الشَّيْءِ: مشقت برداشت کرنا۔

الرَّجُلُ مَالَةً: مال کی حفاظت کرنا۔: مدارات کرنا۔ الْهَسْبُومُ فُلَانًا: تفکرات کا آنا۔

تَعْنَى تَعْنِيًا: برداشت کرنا۔ جھکنا۔ الْاَمْرُ: برداشت کرنا۔ تکلیف اٹھانا۔ فِي الْاَمْرِ: قصد کرنا۔ السَّخْسَى فُلَانًا: بخار کا بار بار آنا۔

اِعْتَنِى اِعْتِنَاءً: بِالْاَمْرِ: اہتمام کرنا۔ پروا کرنا۔ الْاَمْرُ: واقع ہونا۔ نازل ہونا۔ کہا جاتا ہے هُوَ بِهِ اَعْنَى: یعنی زیادہ اہتمام کرنے والا ہے۔

العَنِى: اہتمام کرنے والا۔ مَوْنٌ عَنِىةً:

الْفُئْيَانُ: عَمُوَانُ۔

العَنِية والعَنَاءُ والعَنَاءُ: جھکن۔

المَعْنَى: بمقصور۔ معنی (الكلمة) کلمہ کا بدل لول۔

معنى الكلام: کلام کا مضمون ج مَعَانُ۔

معانى: سے انسان کے صفات محمودہ بھی مراد لئے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ حَسَنُ الْمَعَانِي" فُلَانٌ اچھی صفات والا ہے۔

المَعْنَوِيّ: معنی کی طرف منسوب۔

مَعْنَى الْكَلَامِ وَمَعْنَاتُهُ وَمَعْنِيَّتُهُ: بدل لول کلام۔

عَهْدٌ (س) اَعْتَدَا الْاَمْرَ: پہنچانا۔ الشَّيْءِ: حفاظت کرنا۔ دیکھ بھال کرتے رہنا۔

فُلَانٌ وَعَهْدَةٌ: حفاظت کرنا اور پورا کرنا۔

عَهْدَةُ اللّٰهِ: توحید بیان کرنا۔ فُلَانًا بِمَكَانٍ كَذَا: ملاقات کرنا۔ کہا جاتا ہے "عَهْدِيْ بِهِ قَرِيْبٌ" میری ملاقات اس سے قریب ہے۔

عَهْدٌ اِلَى فُلَانٍ: وصیت کرنا اور شرط لگانا اِلَيْهِ فِي كَذَا: وصیت کرنا اور ذمہ دار بنانا۔

عَهْدُ الْمَكَانِ: موسم ریح کی پہلی بارش کا ہونا۔

عَاهِدَةٌ: معاہدہ کرنا۔ حلیف بننا۔

اَعْتَهَدَ: فُلَانًا مِنْ كَذَا: امین بنانا۔ بری کرنا۔ کفالت کرنا۔

تَعَاهَدَ الْقَوْمَ: ایک دوسرے سے معاہدہ کرنا۔ حلیف بننا۔

تَعَاهَدَ وَتَعَهَّدَ وَاعْتَهَدَ الشَّيْءُ: حفاظت کرنا۔ دیکھ بھال کرنا۔ عہد کی تجدید کرنا۔

تَعَهَّدَ وَاعْتَهَدَ اَمْلَاكَةً: اپنے املاک کی حفاظت و اصلاح کرنا۔ (تَعَاهَدَةٌ) کا لفظ بھی اس کے لئے مستعمل ہے۔

اِسْتَعَهَدَ فُلَانٌ مِنْ صَاحِبِهِ: عہد لینا۔ فُلَانًا مِنْ نَفْسِهِ: اپنے حوادث نفس کا ذمہ دار ٹھہرانا۔

العَهْدُ: مہم۔ وفا۔ ضمان۔ امان۔ ذمہ۔ دوستی۔ وصیت۔ بیثاق۔ قسم۔ شاہی فرمان۔

ج عَهْدٌ: وہ مکان جس میں کسی چیز کا عہد کیا گیا ہو۔ وَلِىُّ الْعَهْدِ: بادشاہ کا جانشین۔ کہا

جاتا ہے "كَمَا ذَلِكُ فِى اَوْ عَلٰى عَهْدِ فُلَانٍ" یعنی یہ فلاں کے زمانہ میں تھا

"وَعَهْدِيْ بِهِ اِنَّهُ لَكَرِيْمٌ" یعنی میرے علم میں وہ کریم ہے و "هُوَ قَرِيْبُ الْعَهْدِ بِكَذَا" وہ فلاں کے قریب الحال ہے۔ "وَعَلٰى عَهْدِ اللّٰهِ لَا فَعْلَنُ كَذَا" میرے اوپر اللہ کی قسم ہے کہ میں ایسا کروں گا۔ کہا جاتا ہے "فَتَسَى عَهْدُكَ بِفُلَانٍ" تم نے اسے کب دیکھا۔ الْعَهْدُ الْقَدِيْمُ: بائبل کی وہ کتابیں جو مسیح علیہ السلام سے پہلے لکھی گئیں۔ الْعَهْدُ الْجَدِيْدُ: بائبل کی وہ کتابیں جو مسیح علیہ السلام کے بعد لکھی گئیں۔

العَهْدُ وَالْعَهْدَةُ وَالْعَهْدَةُ: موسم ریح کی پہلی بارش۔ ج عَهْدًا۔

العَهْدَةُ: ضمان۔ کفالت۔ اصلاح کے لئے واپسی۔ کہا جاتا ہے "لِىْ فِي الْاَمْرِ عَهْدَةٌ" یعنی میں اصلاح کے لئے عنقریب لوٹوں گا۔

حظًا یا عقلًا نقص۔ کہا جاتا ہے "فِى خَطْبِهِ عَهْدَةٌ" اس کا خطر ردی ہے۔

العَهْدُ: عہد کے کو پسند کرنے والا۔ معاملات کی دیکھ بھال کرنے والا۔

العَهْدَانُ: ضمان و کفالت۔

العَهْدِيْدُ: معاہدہ کرنے والا۔ معاہدہ کیا ہوا۔ پراتا۔

السَّعَهْدُ: وہ جگہ جس میں کوئی چیز معبود ہو۔ لوگوں کی واپسی کی جگہ۔ ج مَعَاهِدُ۔

السَّعَهُودُ: مسیح۔ معروف۔ مشہور۔

عَهْرٌ (ف) عَهْرًا وَعَهْرًا او عَهْرُوْرًا وَعَهْرَاةٌ وَعَهْرُوْرَةٌ وَعَهْرٌ (س) عَهْرًا. اِيْهَا: زنا کرنے کے لئے جانا۔ صفت مذکر عَاهِرٌ ج عَهْرًا: صفت مؤنث عَاهِرٌ وَعَاهِرَةٌ ج عَوَاهِرٌ۔

عَاهِرَةٌ عَاهِرًا: زنا کرنے کے لئے جانا۔

العَهْرُ: زنا کرنے کے لئے جانے والا۔ زنا کار۔

العَاهِلُ: شہنشاہ۔ بڑا بادشاہ۔ بے خاوند

عورت۔ ج عَوَاهِل۔

عَهْن (ن) عَهْنًا بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔

مِنَ الْمَكَانِ: لکنا..... فِی الْعَمَلِ: کوشش کرنا

..... اِلَى فُلَانٍ: عہد لینا..... لِفُلَانٍ مَرَادَه:

جلدی پورا کرنا..... الشَّيْءُ: ہمیشہ ہونا اور

ثابت ہونا۔

عَهْنَتْ (ن ض) عَهْنُونًا: جَرَائِدُ النَّخْلِ:

درخت خرما کی شاخوں کا خشک ہونا۔

عَهْنٌ (ض) عَهْنًا: الْقَضِيبُ: شاخ کا چلکنا

اور ٹوٹنے کے قریب ہونا۔

عَهِنٌ (س) عَهْنًا لَهُ كَهَذَا: جلدی کرنا.....

الشَّيْءُ: حاضر ہونا۔

العِهْنُ: اون یارگی ہوئی اون ج عَهْنُونُ کہا

جاتا ہے "هُوَ عَهْنٌ مَالٍ" یعنی وہ مال کا بہتر

انتظام کرنے والا ہے۔

العُهْنَةُ: شاخ کی لپک جو ٹوٹنے کے قریب

ہو۔

العِهْنَةُ: اون یارگی ہوئی اون کا ایک ٹکڑا۔

ایک درخت ہے جس کا پھول سرخ رنگ کا

ہوتا ہے۔

العَاهِنُ: فاقیر حاضر۔ ثابت۔ جلدی کرنے

والا۔ دُحِيلًا۔ کابل۔

العَوَاهِنُ: درخت خرما کی خشک شدہ شاخیں۔

عَاهِنَه کی جمع ہے۔ کہا جاتا ہے "رَمَى

الْكَلَامَ عَلَى عَوَاهِيهِ" جو کچھ منہ میں آیا کہہ

دیا۔ بغیر سوچے ہوئے کہ صحیح ہے یا نلط۔

عَاثٌ يَعْوُثُ وَعَوُثًا فُلَانًا عَنْ كَهَذَا: بنادینا

یہاں تک کہ تمہیر ہو جائے۔ عَوُثَةٌ: دیر کرا

دینا۔

تَعَوَّثَ: تمہیر ہونا۔

الْمَعَاثُ: مذہب۔ مسلک۔ گنجائش۔ کہا جاتا

ہے "إِنْ لِيْ عَنِ هَذَا الْأَمْرِ لَمَعَاثًا" یعنی

میرے لئے اس معاملے میں گنجائش ہے اس

لئے اس کا چھوڑنا میرے لئے ممکن ہے۔

عَاجٌ يَعْوُجُ عَوْجًا وَمَعَاجًا بِالْمَكَانِ:

اقامت کرنا..... فُلَانًا بِالْمَكَانِ: مقیم کرنا

..... السَّائِرُ: ٹھہرنا۔ اِلَى أَوْ عَلَى الْمَكَانِ:

مائل ہونا۔ متوجہ ہونا۔ فُلَانٌ عَمَّا عَزَمَ عَلَيْهِ:

پختہ ارادہ سے ہٹ جانا۔

الْبَيْعِيُّ: اونٹ کو لگام سے پھیرنا۔ کہا جاتا ہے

مَا أَعْوَجَ بِكَلَامِهِ: میں اس کے کلام کی پروا

نہیں کرتا..... عَيَاجًا وَعَوْجًا) اِلَيْهِ: مائل

ہونا۔

عَوْجٌ يَعْوُجُ عَوْجًا: الْعَوْدُ وَنَحْوَهُ: کڑی

وغیرہ کا ٹیز ہونا..... الْإِنْسَانُ: بدخلق

ہونا۔ صفت أَعْوَجُ.

عَوَّجٌ تَعْوِجًا: الْعَوْدُ وَنَحْوَهُ: کڑی وغیرہ

کا ٹیز ہونا..... الْعَصَا وَنَحْوَهُ: لاشی وغیرہ

پر بھی دانت جزا۔ صفت مفعول مَعْوَجَةٌ:

تکسین عین کے ساتھ ہے..... النَّاقَةُ: اونٹنی کو

پھیرنا۔ عَوْجُهُ عَنْ الشَّيْءِ: باز رکھنا۔

تَعَوَّجَ تَعَوُّجًا وَإِعْوَجَ إِعْوَجًا الْعَوْدُ:

کڑی کا ٹیز ہونا۔

إِنْعَاجٌ إِنْعَاجًا عَلَيْهِ: مڑنا۔

الْعَاجُ: ہاتھی دانت۔ العَاجَةُ: ہاتھی دانت کا

ایک ٹکڑا۔

العَوَاجُ: ہاتھی دانت کا بیچنے والا۔

العَوَجُ: بچی۔ بیچیدگی۔

العَوَجَاءُ: مَوْتٌ أَعْوَجُ: کمان۔ دہلی اونٹنی

ج عَوْجُ.

المُعَاجُ: مص۔ ٹھہرنے کی جگہ۔

عَادَةٌ يَعْوُدُ عَوْدًا: بٹانا۔ عَادَ السَّائِلُ:

واپس کرنا۔ عَادَ فُلَانًا بِالْمَعْرُوفِ: احسان

و بھلائی کرنا۔

عَادَ يَعْوُدُ عَوْدًا وَعَوْدَةٌ وَمَعَادًا لِكَهَذَا

إِلَى كَهَذَا: کسی کی طرف ہونا۔ اعراض کے

بعد واپس ہونا۔ کہا جاتا ہے "عَادَ عَلَيَّ مِنْ

فُلَانٍ مَكْرُوفًا" فلاں کی جانب سے مجھے

تکلیف پہنچی۔

عَادَ يَعْوُدُ عَوْدًا وَعِيَادًا: الشَّيْءُ: دوبارہ

کرنا۔ اسی سے مثل ہے "الْعَوْدُ أَحْمَدُ: عَادَ

الْأَمْرَ كَهَذَا: بمعنی صار اور یہ افعال ناقصہ میں

سے ہے اور کبھی ایک حالت سے دوسری

حالت کی طرف انتقال کے لئے آتا ہے جیسے

"عَادَ فُلَانٌ شَيْخًا" یعنی فلاں جوان سے

بزرگ ہوا گیا۔

عَادَةُ عَوْدًا: عادت بنا لینا۔

عَادَ يَعْوُدُ عَوْدًا وَعِيَادًا وَعِيَادَةٌ وَعَوَادَةٌ

السَّمْرِ يَنْصُ: بیمار پرسی کرنا۔ صفت مذکر عَائِدٌ

ج عَوَادٌ وَعَوُودٌ وَعَوُودٌ: اور صفت مفعول مَعْوُودٌ: اور

عَائِدَةٌ: جمع عَوُودٌ: اور صفت مفعول مَعْوُودٌ: اور

مَعْوُودٌ.

عَوُودٌ فُلَانًا كَهَذَا: عادی بنادینا..... البَيْعِيُّ:

اونٹ کا بوز ہونا..... الرَّجُلُ: عمر رسیدہ

ہونا۔

عَيْدٌ تَعْيِيدًا: عید میں حاضر ہونا۔

عَاوَذَ مَعَاوَذَةً وَعَوَاذًا: الرَّجُلُ: امر اول

کی طرف واپس آنا..... الشَّيْءُ: عادت بنا

لینا۔ کہا جاتا ہے "عَاوَذْتُهَ الْحَمَى" بار بار

بخارا آؤ "عَاوَذَهُ بِالْمَسْأَلَةِ" بار بار سوال

کیا۔

أَعَادَ إِعَادَةً الْأَمْرًا وَالْكَلَامَ: لوٹانا۔ دہرانا

..... الشَّيْءُ: عادت بنا لینا۔ طاقت رکھنا.....

الشَّيْءُ اِلَى مَكَانِهِ: اس کی جگہ پر واپس کرنا۔

کہا جاتا ہے "فُلَانٌ مَا يُعِيدُ وَمَا يُيَدِي"

جبکہ کوئی جیلہ نہ ہو۔ "زَانِثٌ فُلَانًا مَا يُيَدِي

وَمَا يُعِيدُ" یعنی کچھ بھی گتھکو نہیں کرتا نہ ابتدا

نہ عادت۔

تَعَوَّدَ تَعَوُّدًا الْمَرِيضُ: بیمار پرسی کرنا.....

الشَّيْءُ: عادی ہونا۔

إِعْتَادَ إِعْتِيَادًا: الشَّيْءُ: خوگر ہونا۔ عادی

ہونا۔

تَعَاوَدَ الْقَوْمُ فِي الْحَرْبِ: ہر فریق کا اپنے

ساتھیوں کے پاس واپس جانا۔

إِسْتَعَادَ اسْتِعَادَةً: لوٹنے کو کہنا..... الشَّيْءُ:

فُلَانًا وَمِنْ فُلَانٍ: لوٹانے کو کہنا..... الشَّيْءُ:

عادی ہونا۔ خوگر ہونا۔

عَادَ: عرب اونٹنی کا ایک شخص۔ ایک پرانا قبیلہ

جو اسی شخص کے نام سے موسوم تھا۔ کہا جاتا

ہے "مَعَاذِ رَبِّي أَيْ عَادَ هُوَ" مجھے نہیں معلوم

کہ وہ کون ہے۔

العادی: وہ امر جس کی عادت جاری ہو۔
پرائی چیز۔ اقوام قدیمہ کے کھنڈرات۔ ج
عادیات۔

العود: مص۔ بوڑھا اونٹ۔ بوڑھی کہری۔
ج عیوود: پرانا راستہ۔ کہا جاتا ہے "زجع
عودًا علی بندہ" او "زجع عودہ علی
بندہ" یعنی اس کا سفر ختم نہیں ہوا اور واپس آ
گیا۔

العود: لکڑی۔ نئی ہوئی ٹہنی۔ ایک قسم کی خوشبو
جس کو بطور بخور استعمال کیا جاتا ہے۔ زبان
کی جز کی بڑی۔ سارگی ج عیدان و اعواد
واعود۔

عود الصلیب و عود الفرح و عود
الانجبار: دواؤں کے نام۔

العید: عید۔ بروہ دن جس میں کسی صاحب
فضل یا کسی بڑے واقعہ کی یادگار مناتے
ہوں۔ کہا گیا ہے کہ اس کو عید اس وجہ سے
کہتے ہیں کہ ہر سال لوٹ کر وہ دن آتا ہے
اور اصل اس کی (عود) ہے۔ اور اس کی جمع
قاعدہ کے مطابق (اعواد) ہونی چاہئے تھی مگر
(عود) بمعنی لکڑی کی جمع سے فرق کے لئے
اس کی جمع (اعیاد) آتی ہے۔ العید: بار بار
آنے والی بیماری یا تم وغیرہ۔

العادة: عادت۔ خوج عادات و عباد
وعید و عوائد (عوائد گو یا عائدہ کی جمع
ہے۔)

العود: سارگی بجانے والا۔
الاعود: نافع تر۔ زیادہ مفید۔ کہا جاتا ہے
"هذا عود علیک" یعنی یہ تمہارے لئے
زیادہ نافع ہے۔

العائذ: مؤنث عائذ۔ ج عود و عوائد
وغائذات: بھلائی۔ صلہ۔ مہربانی۔
منفعت۔ ج عوائد۔ العوائد: محصول۔

العواد: مہربانی۔ بھلائی کا کام۔ کہا جاتا ہے
"ان لک عندنا عوادا حسنا" یعنی
تمہارے لئے ہمارے پاس وہ ہے جو تم پسند
کرو۔ عواد تلیث: عین کے ساتھ ہے۔

العواذ: مص۔ کھانا جو ایک مرتبہ کھالینے
کے بعد نئے مہمان کے لئے دوبارہ لایا
جائے۔ کہا جاتا ہے "لک العواذ"
ولک العود والعوذة" تیرے لئے واپسی
کا حق ہے۔

المعاد: مص۔ لوٹنے کی جگہ۔ آخرت۔
جنت۔ ج (.....) والمعاذ (رونے کی جگہ
نوح کرنے کی جگہ ج معاود۔

المعید: قا۔ حائق۔ تجربہ کار۔ عالم
بالامور۔ بار بار جہاد کرنے والا۔ کہا جاتا ہے
"فرس مبدئ معید" سدھایا ہوا گھوڑا۔

المعاود: قا۔ بھنگی کرنے والا۔ اپنے عمل میں
ماہر۔ جواں مرد۔

المعتید: غصبتاک۔ سخت ظالم۔

عَادَ يَعُوذُ عَوْذًا وَعِيَاذًا وَمَعَاذًا وَمَعَاذَةً
تَعُوذُ وَاسْتِعَاذَ بِفُلَانٍ مِنْ كَذَا: پناہ لینا۔
عَاذَ بِالشَّيْءِ: لازم ہوتا۔

عَوَّذَ تَعْوِذًا وَأَعَاذَ إِعَاذَةً وَأَعُوذَ إِعْوَاذًا.
السَّرْجُلُ: حفاظت کی دعا کرنا اور اُحْيَيْذُكَ
بِاللَّهِ: کہنا۔ منتر کرنا۔ عَوَّذَ الرَّجُلُ: کسی پر
تعویذ لگانا۔

تَعَاوَذَ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کی پناہ لینا۔ ایک
دوسرے پر بھروسہ کرنا۔

العوذ: پناہ۔ کہا جاتا ہے "عود باللہ
منک" یعنی میں تم سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔

العیاذ: مص۔ پناہ کی جگہ۔ کہا جاتا ہے
"العیاذ باللہ منک" یعنی میں تم سے اللہ کی
پناہ لیتا ہوں۔

العوذ: پناہ کی جگہ۔ کراہت۔ درختوں سے
گرے ہوئے پتے۔ ناکس و فرمایہ لوگ۔

العُوذَةُ ج عَوْذٌ وَالتَّعْوِذُ ج تَعَاوِذٌ
والمُعَاذَةُ ج مَعَاذَاتٌ: تعویذ۔ اسماء یا
آیات قرآنی جو لکھ کر آدمی کے گلے وغیرہ
میں دے کر بیماری وغیرہ کے لئے لکایا جائے۔

العواذ: کراہت۔ کہا جاتا ہے "ماتسرتحت
فلاننا إلا عواذًا منه" میں نے فلاں کو صرف
کراہت کی وجہ سے چھوڑ دیا۔

العائذ: فاعل عَوَّذَ.....: نئی بننے والی ہرنی یا
اونٹ یا گھوڑا ج عَوَّذٌ وَعَوَّذَانٌ ج
عَوَّذَاتٌ۔

العائذة: مؤنث عائذ ج عوائذ و عائدات
العوائذ: چاند ستارے جن کے وسط میں ایک
ستارہ ہے جس کا نام ربیع ہے۔

المعاذ: مص۔ جائے پناہ۔ منتر۔ کہا جاتا ہے
"مَعَاذَ اللّٰهِ وَمَعَاذَ وَجْهِ اللّٰهِ" و "مَعَاذَةَ
اللّٰهِ وَمَعَاذَةَ وَجْهِ اللّٰهِ" یعنی اللہ کی پناہ لیتا
ہوں۔

المُعَوِّذُ: بچاؤ لےنے کی جگہ۔ تعویذ لگانے کی
جگہ۔ گھروں کے ارد گرد اونٹوں کی چراگاہ۔

المُعَوِّذُ وَالمُعَوِّذُ وَالعَوِّذُ: کانٹوں یا
درختوں کی جڑ میں یا پتھر کے پیچھے کی
نباتات۔

عَاوَزَ يَعُوِزُ عَوِزًا: کانٹا کر دینا۔ عَاوَزَ الشَّيْءُ:
لے جانا اور تلف کرنا (.....) وَأَعْوَزَ غَيْبٌ
السَّمَاءِ أَوْ الرَّجِيئَةِ: پانی کے چشمہ یا کنوئیں کو
بند کر دینا۔ عَاوَزَتْ غَيْبٌ السَّمَاءِ أَوْ الرَّجِيئَةِ:
پانی کے چشمہ یا کنوئیں کا بند ہونا۔

عَوِزٌ يَعْوِزُ عَوِزًا وَأَعْوِزُ: کانٹا ہونا۔ صفت
مذکر۔ عَوِزٌ: صفت مؤنث عَوِزَةٌ ج عَوِزٌ
وَعَوِزَاتٌ۔

عَوِزَةٌ: کانٹا کرنا..... عَسَنِ الْأَنْسَرِ: باز
رکھنا۔ عَوِزٌ عَلَيْهِ أَمْرٌ: قباحت ظاہر کرنا۔

عَوِزُ الْمَكَايِلِ: پیلوں کا اندازہ کرنا.....
غَيْبٌ الْبَشْرِ: کنوئیں کو مٹی سے بھر دینا۔ عَنِ
فُلَانٍ: دوسرے کی جانب سے جھوٹ بولنا۔

فُلَانًا: رو کر دینا اور حاجت پوری نہ کرنا۔
أَعْوَرَهُ إِعْوَارًا: کانٹا کر دینا۔ أَعْوَرَ الشَّيْءُ:
ظاہر ہونا۔ اعضاء مستورہ کا کھل جانا۔ اَعْوَرَ
الفارسُ: سوار میں نیزہ گلے کی جگہ ظاہر ہونا
..... الرَّجُلُ: شک کرنا۔

أَعْوَارَةُ إِعْوَارَةٌ. الشَّيْءُ وَمِنْ الشَّيْءِ: مغلٹی
دینا۔

عَاوَزَ الشَّيْءُ مُعَاوَرَةً: مغلٹی دینا۔ عَاوَزَ
الشَّمْسُ: انتظار کرنا۔ عَاوَزَ الشَّيْءُ: جیسا

کسی نے کچھ کیا ویسا ہی اس کے ساتھ کرنا۔
عَاوَزٌ وَعَاوِزٌ: مکانییل: بیانیوں کا اندازہ
کرنا۔

إِعْوَزٌ: کاٹا ہونا۔ إِعْوَزَتْ وَإِعْوَزَتْ الْعَيْنُ:
آنکھ کا کائی ہو جانا۔

تَعَوَّرَ وَالْعَارِيَّةُ: معنی مانگنا..... وَتَعَاوَزَ
..... (وَإِعْوَرَ) الْقَوْمُ الشَّيْءَ: باری باری لینا۔
دست بدست لینا۔ کہا جاتا ہے "تَعَاوَزَتْ
السَّرِيحُ رَسْمَ الدَّارِ" مکان کے نشانات و
کھنڈرات پر مختلف ہوا میں۔ کبھی جنوبی کبھی
شمالی کبھی غریبی کبھی شرقی چلیں۔

إِسْتَعَوَزَ الرَّجُلُ: منفرد ہونا۔ اکیلا ہونا۔

إِسْتَعَارَ الشَّيْءُ مِنْ فُلَانٍ وَاسْتَعَارَ فُلَانًا
الشَّيْءُ: معنی دینے کو کہنا اور اسی سے ہے
"أَرَى الدَّهْرَ يَسْتَعِيرُ فَيْ قِيَامِي" میں زمانہ
کو دیکھتا ہوں کہ وہ میرے کپڑوں کو عاریت
دینے کو کہتا ہے اور یہ آدمی اس وقت کہتا ہے
جبکہ وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور اسے موت کا
خوف ہوتا ہے۔

العَوْرَةُ: خصل جو سرحد میں ہو اور جس سے
خوف کیا جائے۔ العَوْرَةُ مِنَ الْجِبَالِ:
شکاف..... مِنَ الشَّمْسِ: جائے طلوع و
غروب۔ العَوْرَةُ: ہر امر جس سے شرم کی
جائے۔ انسان کے اعضاء جن کو حیا سے
چھپایا جاتا ہے حج عَوْرَاتِ عَوْرَاتِ.

العَائِي: فا۔ وہ شخص جس کی آنکھ میں تکا ہو۔
آشوب چشم۔ تکا۔ ہر وہ چیز جو آنکھ کو تکلیف
پہنچائے۔ العَائِي مِنَ السِّهَامِ وَالْحِجَارَةِ:
وہ تیر یا پتھر جس کا پھینکنے والا معلوم نہ ہو۔ کہا
جاتا ہے "أَصَابَهُ سَهْمٌ أَوْ حَجَرٌ عَائِيٌّ" اس
کو ایسا تیر یا پتھر آ کر لگا جس کے پھینکنے والا
معلوم نہیں۔

العَائِيَّةُ: مؤنث عائیر: کثرت۔ کہا جاتا ہے
"لَهُ مِنَ الْمَالِ عَائِيَّةٌ عَيْنِيْن" اس کے پاس
اتنا مال ہے جو دونوں آنکھوں کو بھر دیتی
ہے۔ عَيْنٌ عَائِيَّةٌ: تنکے والی آنکھ حج عَوَالِيهِ.
العَوَالِيُّ مِنَ الْجَمْرَادِ: ٹڈیوں کی متفرق ڈار۔

العَاوِرَةُ وَالْعَارِيَّةُ وَالْعَارِيَّةُ: معنی۔ معنی دینا۔
وہ چیز جس کو لوگ آپس میں لیں دیں۔ حج
عوار و عوارٹی۔

العَوَارُ وَالْبَعَوَارُ وَالْفَوَارُ: عیب۔ کپڑے کا
پھین۔

الاعْوَرُ: کاٹا۔ مؤنث عَوْرَاءُ حج عَوْرُ
وَعَوْرَانِ. وَعَوْرَانِ. الْمَعَالِي الْعَوْرُ: معانی
مشکلہ۔ قَلَاةٌ عَوْرَاءُ: بے پانی کا جنگل۔ کلمہ
عَوْرَاءُ: کلمہ قبیحہ۔ الاعْوَرُ: کوا۔ روی۔
ضعیف بزدل۔ بری رہنمائی کرنے والا۔
پیشی ہوئی کتاب وہ شخص جس کا حقیقی بھائی نہ
ہو۔ وہ راستہ جس میں کوئی علامت نہ ہو۔ حج
أَعَاوِرُ.

العَوْرُ: روی۔ سیرت۔ شئی عَوْرٌ: وہ چیز جس
کا نگہبان کوئی نہ ہو۔ مؤنث عَوْرَةٌ.
العَوِيْرُ: کوا۔

العَوِيْرَانِ: ٹڈیوں کی متفرق ڈار۔

العَوَارُ: تنکا۔ ابا تیل۔ راستہ سے ناواقف۔
کنزور۔ بزدل۔ حج عواویر۔

المُعَارُ: دہلا گیا ہوا گھوڑا اور بقول بعض دم نچا
ہوا گھوڑا۔

المُعَوْرُ: مِنَ الْأَمْكِنَةِ: دہشت ناک۔ رَجُلٌ
مُعَوْرٌ: بری عادت والا۔ شئی مُعَوْرٌ: جس کا
کوئی نگہبان نہ ہو۔

عَاوَزَ يُعَوِّزُ عَوْرًا الشَّيْءُ فُلَانًا: محتاج ہونا اور
کا میاب نہ ہونا۔

عَوِزٌ يُعَوِّزُ عَوْرًا. الشَّيْءُ: دشوار ہونا۔
باوجود حاجت کے کیاب ہونا..... الْأَمْرُ:
تخت ہونا..... الرَّجُلُ: محتاج ہونا۔ صفت
عَوِزٌ وَعَاوِزٌ وَأَعْوِزٌ.

أَعْوَزَ إِعْوَاوًا. الرَّجُلُ: محتاج و بد حال ہونا۔
صفت مُعَوِّزٌ وَمُعَوِّزٌ: أَعْوَزَهُ الْمَطْلُوبُ:
مطلوب کا عاجز کر دینا اور اس کا حصول
دشوار ہونا۔ أَعْوَزَ نِسَى الشَّيْءِ: محتاج ہونا اور
قادر نہ ہونا۔ أَعْوَزَ الشَّيْءُ: دشوار ہونا.....
الدَّهْرُ فُلَانًا: زمانہ کا کسی کو محتاج کر دینا۔
إِعْوِزَ إِعْوِزًا: حیلہ کرنا۔ حالت کا گڑبڑ

ہوتا۔

العَوِزُ: بمص۔ دانہ انگور۔ واحد عَوِزَةٌ.

العَوِزُ: حاجت۔ سختی۔

الْجَمْعُ وَالْمَجْعُورَةُ: پرانا بوسیدہ کپڑا۔ ہر وہ
کپڑا جس سے دوسرے کپڑے کی حفاظت
ہو۔ حج مَعَاوِزٌ وَمَعَاوِزَةٌ.

عَاوَسَ يُعَاوِسُ عَوَسًا وَعَوَسَانًا: رات میں
چکر لگانا..... عَلِيٌّ عَيَالُهُ: آل اولاد کے لئے
محت سے کمانا..... عَيَالُهُ: خوراک دینا.....
عَوَسًا وَعَيَاسَةً الدَّيْبُ: بھیرے کارات
میں خوراک ڈھونڈنا..... عَوَسًا الشَّيْءُ:
تعریف کرنا..... عَيَشْتُهُ: درست کرنا۔

عَوَسَ يُعَوِّسُ عَوَسًا: ہنسنے میں رخساروں
میں گڑھا پڑنا۔ صفت أَعْوَسُ.

العَوِيسُ: سپید مینڈھے اور نسبت کے لئے
عَوِيسِيٌّ: کہا جاتا ہے كَبَشٌ عَوِيسِيٌّ.

العَوِيسُ: صیغہ مبالغہ۔

عَاوَسَ يُعَاوِسُ وَعَوِيسًا وَعَوِيسًا عِيَاصًا
وَعَوِيسًا. الشَّيْءُ: سخت ہونا۔ دشوار ہونا.....
الكَلَامُ: جس کا سمجھنا دشوار ہو۔

إِعْتَاوَسَ إِعْتَاوِسًا. الْأَمْرُ عَلَيْهِ: سخت ہونا
دشوار ہونا۔ پیچیدہ ہونا جس کی وجہ سے
صواب کو نہ پانا۔

عَوِيسٌ: فعل یا قول میں راہ راست پر نہ
ہونا۔ الشَّاعِرُ أَوْ الْخَطِيبُ: ایسا شعر یا کلام
کہنا جس کا سمجھنا دشوار ہو۔

أَعْوَسَ عَوِيسًا وَعِيَاصًا. وَالْقِيَاوِسُ
إِعْوَاوِسًا: بِخَضْمِهِ وَعَلِيٌّ خَضْمُهُ: دلائل
سے حیران کر دینا..... فِي الْكَلَامِ: ہار یک
بات کہنا۔

عَاوِصَةٌ مُعَاوِصَةٌ: کشتی لٹانا پھٹاڑنا۔

الأَعْوِصُ: ہار یک بات۔ مؤنث عَوِصَاءُ.
العَوِصَاءُ: مؤنث أَعْوِصُ: سختی۔ حاجت
كَلِمَةٌ عَوِصَاءُ: کلمہ نادرہ۔

العَوِصُ: دشواری۔

العَوِيسُ وَالْعَوِيسُ وَالْعَوِيسَاءُ: سختی۔

حاجت۔ العَوِيسُ: نفس قوت۔ حرکت۔

العَوِيصُ. مِنَ الْأُمُورِ: دُشْوَارٌ..... مِنْ
الْكَلَامِ: جِسٌّ كَأَجْمَعٍ دُشْوَارٌ هُوَ..... مِنْ
الدُّوَاهِي: نَحْتٌ مُمَيِّتٌ. مَوْثٌ عَوِيصَةٌ.
العَوِيصُ: نَجْتٌ - نَفْسٌ - قُوَّةٌ - حَرَكَةٌ.

عَاضٌ يَعْوِضُ عَوْضًا وَعَوْضًا وَعِيَاضًا
وَعَوْضٌ وَعَاوِضٌ وَأَعَاضٌ إِعَاضَةٌ فَلَانًا
مِنْ كَذَا: بَدَلُهُ دِيْنَا -

تَعَوَّضٌ وَإِعْتَاضٌ. مِنْهُ: بَدَلُهُ لِيْنَا -
إِعْتَاضٌ وَإِسْتِعَاضٌ فَلَانًا: بَدَلُهُ مَا لَنَا -

عَوْضٌ: يَكْتُمُهُ بَنِي هَبْلَةَ فِي حَرَكَاتِهِمْ
سَاتِحًا مُسْتَعْمَلٌ هُوَ وَأُورِثُوا حَرَكَاتِهِمْ
سَاتِحًا مُسْتَعْمَلٌ هُوَ وَأُورِثُوا حَرَكَاتِهِمْ

إِسْتِعْرَاقٌ مُسْتَعْمَلٌ كَمَا دِيْنَا هُوَ جِيْسٌ
أَهْلَاقٌ كَعَوْضٌ. لِيْعْنِي فِي تَحْتِهِ سَبِيحٌ
نِيْسِي هُوَ كَمَا دِيْنَا هُوَ كَمَا دِيْنَا

آتَا هُوَ جِيْسٌ "نَسَارَاتِيثٌ مِثْلُهُ عَوْضٌ" لِيْعْنِي
فِي نَسَارَاتِيثِ اسْمِ اسْمِ كَمَا دِيْنَا هُوَ كَمَا دِيْنَا

مَعْرَبٌ هُوَ جِيْسٌ "لَا أَفْعَلُهُ عَوْضٌ
الْعَايِضِيْنَ" لِيْعْنِي فِي اسْمِ اسْمِ كَمَا دِيْنَا هُوَ كَمَا دِيْنَا

العَوِيصُ جِ عَوَاوِصٌ..... العَوَايِصُ
وَالْمَعْوِصَةُ: بَدَلُهُ

تَعَوَّضَ الْمَرْأَةُ أَوْ النَّاقَةَ: عَمَرَتْ يَأْتِيهِ كَأَنَّ
سَالٌ بَغِيْرٌ بَأَجْهِ پِنِ كِ حَامِلَةٌ نَهْ هُوَا.....

العنق: گردن لبی ہونا۔

إِعْتَاطَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ النَّاقَةَ: عَمَرَتْ يَأْتِيهِ كَأَنَّ
كَلْبٌ سَالٌ بَغِيْرٌ بَأَجْهِ پِنِ كِ حَامِلَةٌ نَهْ هُوَا.....

ہوتا۔

جِ عَوْطٌ وَعَوَائِطٌ وَعِطٌ وَعِطَاتٌ
وَعِطَاتٌ.

عَافٌ يَعْوِفُ عَوْفًا الطَّائِرُ: پَرْنَدَهُ كَمَا
مَنْ لَانَا -

تَعَوَّفَ الْأَسَدُ: شِيْرَكَارَاتٍ فِي شَكَرَكَو
ذُهُوْدَانًا أُوْرِيْبَهَارَاتَانَا -

العاف: نرم۔

العَوْفُ: مِصٌّ - حَالٌ - مَهْمَانٌ -
مَرِغٌ - شِيْرٌ - بِيْطِيْرٌ - اِئْمَالٌ وَعِمَالٌ كِ لِيْعْنِي
مَشَقَّتٌ بَرْدَاشْتٌ كِرْنِ دَالَا - پَرْنَدَهُ - اِيَكٌ

خَوْشِبُودَارِنَاتَانَا - اَبُو عَوْفٌ: نَزْدِيْ اَمٌ
عَوْفٌ: مَادَةٌ بَدِيْ -

العَوَافُ وَالْعَوَافَةُ: شَكَرَكَو كُوْشِيْرَاتٍ فِي
پَهَارَتِيْ - نَغِيْمَتٌ -

عَاقِبَةٌ يَعْوِقُهُ عَوْقًا وَعَوْقُهُ وَأَعَاقِفَةٌ إِعَاقِفَةٌ
وَإِعْتَاقَةٌ إِعْتِيَاقًا عَنْ كَذَا: رَوَكْنَا - بَا زَرَكْنَا -

بِنَادِيْنَا - كَمَا جَا تَا هُوَ "أَعْوَقَ بِي السَّرَادُ أَوْ
السَّرَابَةُ إِعْوَاقًا" لِيْعْنِي جِيْجِيْ كُوْشِيْرَاتٍ تُوْشِيْ يَأْتِي

سَوَارِيْ نِيْ بَا زَرَكْنَا -
تَعَوَّقٌ: بِيْجِيْ بِنَا - تَعَوَّقُ فَلَانًا: بَا زَرَكْنَا -

العَوِقُ وَالْعَوِقُ: رَوَكْنَا دَالَا - بِيْضٌ
آدِيْ - لُوْكَوْ كُوْشِيْرَاتٍ كَامُوْ سِيْ رَوَكْنَا

دَالَا - وَادِيْ كَامُوْ - جِ أَعْوَاقٌ.
العَوِقُ وَالْعَوِقُ وَالْعَوِقُ وَالْعَوِقُ وَالْعَوِقُ
وَالْعَوِقُ: رَوَكْنَا دَالَا -

زَجَلٌ عَوْقَةٌ وَعَوْقَةٌ وَعَوْقٌ وَعَيْقٌ وَعَيْقٌ:
لُوْكَوْ كُوْشِيْرَاتٍ خِيْرٌ سِيْ رَوَكْنَا دَالَا -

العَوِقُ: بِيْجِيْ
أَلْعَائِقُ: پِيْجُوْلُوْ كِيْ اِيَكٌ قَمٌ -

العَاقِقُ: قَا - بَرْدَاشْتِ دَالِيْ جِيْزٍ - جِ عَوَائِقُ
وَعَوْقٌ. عَوَائِقُ الدَّهْرِ: زَمَانَةُ كِ

مَشَاغِلٌ -
العَاقِفَةُ: مَوْثٌ عَاقِقٌ: عَمَلٌ سِيْ رَوَكْنَا دَالِيْ

جِيْزٍ - جِ عَوَائِقُ.
العَوِيْقُ: نَامٌ اِيَكٌ سَارِيْ كَا جُوْشِيْرَا كِيْ بِيْجِيْ

ہوتا ہے۔

العَوَاقُ وَالْعَوَائِقُ: چَلْتِيْ هُوِيْ جَانُوْرِكِيْ
پِيْثِ كِيْ آوَا ز -

عَاكٌ يَعْوِكُ عَوْكًا وَمَعَاكًا عَلَيْهِ: حَمَلُهُ
كِرْنَا - مَتُوْجِدُهُ هُوَا..... بِه: پَنَاهُ لِيْنَا..... مَعَاشَةُ:

كَمَا لِيْ كِرْنَا - صَفْتٌ عَاكِبٌ.
تَعَاوَكُ الْقَوْمُ: بِأَمْرٍ لَانَا -

إِعْتَوَكُ..... الْقَوْمُ: بِجُومٍ كِرْنَا -
أَلْعَوِكُ: مِصٌّ - كَمَا جَا تَا هُوَ "مَنَابِهٌ عَوْكٌ"
لِيْعْنِي اِسْمِ كُوْشِيْرَاتٍ حَرَكَتِ نِيْسِيْ -

العَوِيْكَةُ وَالْمَعْوِيْكَةُ: لَزَانِيْ -

المعَاك: جَا تِيْ پَنَاهُ - رَاشْتِيْ - بَرْدَاشْتِيْ -
عَمَالٌ يَعْوُلُ عَوْلًا فِي حُكْمِيْهِ: عَظْمٌ كِرْنَا - رَاہ

حَقٌّ سِيْ مَاتَانَا..... يَعْوُلُ عَوْلًا وَعَمَالٌ
يَعْمَلُ عَمَلًا فِي الْمِيْزَانِ: خِيَاثَتٌ كِرْنَا.....

المِيْزَانُ: كَهْنًا..... أَمْرٌ الْقَوْمُ: مَضْطَرَبٌ هُوَا
..... الشِّيْءُ فَلَانًا: بَهَارِيْ هُوَا - عَالَتِ النَّاقَةُ

ذَنْبَهَا: اُوْتِيْ كَادِمًا مَاتَانَا -
عَمَالٌ يَعْوُلُ عَوْلًا وَعِيَالَةٌ: كَثِيْرٌ اِعْمَالٌ هُوَا -

عَمَالٌ يَعْوُلُ عَوْلًا وَعِيَالَةٌ وَعَوْلًا الرَّجُلُ
عَمَالَةٌ: اِئْمَالٌ وَعِمَالٌ كِيْ كَفَالَتِ

كِرْنَا..... التِّيْسِمُ: كَفَالَتِ كِرْنَا - كَمَا جَا تَا هُوَ
"عَمَالٌ عَوْلُهُ وَعَمَالٌ عَوْلُهُ" لِيْعْنِي اِسْمِ كِيْ مَالِ

نِيْ اِسْمِ كِرْدِيَا -
عَمَالٌ وَعَمَالٌ صَبْرَةٌ: صَبْرٌ جَا تَا بِنَا -

الرُّجُلُ: مَتَاجِدٌ هُوَا - صَفْتٌ - مَعْمُولٌ -
أَعْمَالٌ إِعْمَالَةٌ وَأَعْمَالٌ إِعْمَالَةٌ وَأَعْمَالٌ إِعْمَالَةٌ

الرُّجُلُ: بِيْهْتِ اَوْلَادُ دَالَا هُوَا - أَعْمَالُ الرَّجُلِ:
مَتَاجِدٌ هُوَا - أَعْمَالٌ وَأَعْمَالٌ: حَرِيْصٌ هُوَا -

صَفْتٌ مُعْمُولٌ وَمُعْمِلٌ أَعْمَالٌ عِيَالَةٌ: اِئْمَالٌ وَ
عِمَالٌ كِيْ مَعْمَالِ كِيْ لِيْعْنِي كَانِيْ هُوَا -

أَعْمَالٌ: جِيْجِيْ كِرْدِيَا - أَعْمَالَتِ الْقَوْمِ: كَمَا نِ
كَا آوَا زَرَكْنَا - أَعْمَالُ الرَّجُلِ: حَرِصٌ كِرْنَا.....

عَمَالِيْ فَلَانٌ: نَا زَرَكْنَا - بَهْرُوسَةٌ كِرْنَا -
عَوْلٌ: جِيْجِيْ كِرْدِيَا..... عَمَالِيْ فَلَانٌ: بِه: نَدَدٌ

مَاتَانَا - بَهْرُوسَةٌ كِرْنَا - اِعْتِمَادٌ كِرْنَا - كَمَا جَا تَا هُوَ
"عَمَالٌ عَمَالِيْ بِمَاتَانَا" لِيْعْنِي جُوْمٌ جَا بُوْجِيْجِيْ

سِيْ مَدُوْلُوْ اِرْعَوُلُ عَلَيْهِ مُعْمُولًا: كَمَا جَا تَا هُوَ
اُوْرْتَعَمُوْ يَلَا: نِيْسِيْ كَمَا جَا تَا اُوْر اِسْمِ اِعْمَالِ هُوَ

اُوْر كَمَا جَا تَا هُوَ "عَمَالِيْ اِلَى فَلَانٍ فَنِيْ
حَا جِنَا فَوَجَدْنَا نَاعِمَ الْمَعْمُولِ" لِيْعْنِي اِسْمِ

نِيْ فَلَانِ كِيْ اِئْمَالِ حَا جِنَا فِيْ پَنَاهُ لِيْ اُوْر اِسْمِ
نِيْ اِسْمِ كُوْشِيْرَاتٍ جَا تَا پَنَاهُ پَا يَا -

عَمَالٌ تَعْمَلُ عَمَالَةً: اِئْمَالٌ وَعِمَالٌ كِيْ مَعْمَالِ
كِيْ لِيْعْنِي كَانِيْ هُوَا -

إِعْمَالٌ إِعْمَالًا: جِيْجِيْ كِرْدِيَا - كَمَا جَا تَا هُوَ
"مَاتَانَا عَمَالٌ وَلَا مَاتَانَا" لِيْعْنِي اِسْمِ كِيْ پَاسِ كِيْجِيْ

نِيْسِيْ -

کھیت یا جانوروں کا مالک ہونا۔ صفت غائۃ
وغاۃ وعاۃ وَاغُوۡة۔

عَوۡةُ الرَّجُلِ: آفت پہنچانا..... وَاَعَاةُ
وَاَعُوۡةُ اِبَاعَاةُ وَاَعُوۡاَهَا وَاَعُوۡةُ تَعُوۡهَا
آفت رسیدہ کھیت یا جانوروں کا مالک ہونا۔
عَوۡةُ الْقَوْمِ: کچھ دیر سونے کے لئے سفر میں
ٹھہر جانا۔ عَوۡةٌ عَلَيْهِمُ: ٹھہرنا۔ اقامت
کرتا۔

الْعَاۡةُ: آفت۔ اَهْلُ الْعَاۡةَاتِ: آفت
رسیدہ لوگ۔

السَّعُوۡةُ وَاَلْمَعُوۡةُ وَاَلْمَعِيۡةُ مِنَ الْمَوَاسِيِ
وَاَعُوۡةَا: آفت رسیدہ۔

عَوِيٌّ يَّعُوِيُّ عَوَاۡءً وَعَيَاۡ عَوُوۡةً وَعَوِيۡةً
الْكَلْبُ اَوْ الذَّنْبُ وَاِبْنُ اَوِيٍّ: بھونکنا۔ کہا

جاتا ہے "فَلَانٌ مَّا يَّعُوِيُّ وَمَا يَنْبُحُ" جبکہ کسی
کو ضعیف سمجھا جاتا ہے۔ الْقَوْمُ اِلَى الْفِتْنَةِ:
بلانا..... عَوَاۡةٌ يَّعُوۡدُهُ عَيَاۡ: عین الشئی باز
رکھنا..... وَعَوِيٌّ الْقَوْمُ وَنَحْوُهَا:

کمان کو بھکانا..... النَّحْلُ اَوْ الشَّعْرُ: رسی یا
بال کو موڑنا..... عَنِ الرَّجُلِ: جواب دینا
اور نفیث کرنے والے کی تکذیب کرتا۔

اِغْتَوَى اِغْتَوَاۡ الشَّيْءُ: موڑنا..... الْكَلْبُ:
کتے کا بھونکنا۔

عَاوَى. الْكَلَابُ مَعَاوَاۡةً: بھونک کر کتے کو
اُكْسَاۡ۔

تَعَاوَى تَعَاوَاۡ الْقَوْمُ عَلٰی فُلَانٍ: کسی پر ہجوم
کرتا۔

اِنْعَوَى اِنْعَوَاۡةً: مڑنا۔

اِسْتَعَوَى اِسْتَعَوَاۡةً الْقَوْمُ: فریاد کرتا۔ قَتْنَةٌ
اُبْحَارًا..... ه: بھونکنا۔

العَوَاۡةُ: بہت بھونکنے والا کتا۔
العَوَاۡةُ: صم۔ آواز شور..... العَوَاۡةُ
چوڑ۔

الشَّعَاوِيۡةُ: کتیا۔ لومڑی کا بچہ۔
عَابَ يَّعِيۡبُ عَيَاۡ الشَّيْءِ: عیب دار بنانا۔

صفت فاعل غائب: اور صفت مفعول مَعِيۡبُ
وَمَعُوۡبٌ۔

پانی پر تیرتی رہتی ہے اور جس کی حرکت سے
اندازہ ہوتا ہے کہ چھل پھنسی ہے۔

العَوَامُ: سوار کا سر جو میدان میں دور سے نظر
آئے۔ کہا جاتا ہے "الْقَيْۡنَةُ ذَاتُ الْعَوِيۡمِ"
یعنی میں سالوں میں کسی سال ملا۔
الْمُسْتَعَامُ: جہاز۔ کشتی۔

عَاثَتْ تَعُوۡنُ عَوْنَا الْمَرْۡةُ: عورت ادھیڑ عمر
کی ہوتی۔

عَوْنَاۡةٌ تَعُوۡنَا وَاَعَاۡةٌ مَّعَاوِنَةٌ وَاَعُوۡاۡنَا وَاَعَاۡةُ
اَعَاۡةٌ عَلٰی الشَّيْءِ: مدد کرتا۔ عَوْنَتِ الْمَرْۡةُ:
ادھیڑ عمر کی ہوتی۔ اَعَاۡةٌ مِنْهُ: اس نے اس کو

اس سے خلاص دی۔

تَعَاوَنَ اِغْتَوَنَ. الْقَوْمُ: ایک دوسرے کی مدد
کرتا۔

اِسْتَعَانَ. فُلَانًا وِبِفُلَانٍ: مدد طلب کرتا۔
السَّعُوۡنُ: صم۔ مدد کرتا۔ مددگار۔ خادم
(واحد جمع مذکر مؤنث سب کے لئے مستعمل

ہے) نِ اَعْوَانُ.
السَّعَاۡةُ: گدھی۔ گورخر کار پوڑ۔ بیڑہ۔ ج

عَوْنٌ وَاَعَاۡنَاتُ.
العَوَانُ: بارش شدہ زمین جنگ جس میں بار

بارش آئی ہو۔ الْحَرَبُ الْعَوَانُ: سخت جنگ
العَوَانُ: ادھیڑ عمر کا۔ ج عَوْنُ.

العَوَاۡةُ: کھجور کا لمبا درخت۔ ریت کا ایک
کپڑا۔ ایک جانور جو سب سے چھوٹا ہوتا

ہے۔
الْمَعَاۡةُ وَاَلْمَعُوۡةُ وَاَلْمَعُوۡنُ: مدد۔

المِعْوَانُ: بہتر مددگار۔ بہت مددگار۔ ج
مَعَاوِيۡنُ.

الشَّعَاوِيۡةُ: کھانے پینے اور لباس وغیرہ اشیاء
کا ستاسور جس کو یونٹنی شور بولا جاتا

ہے۔
الْمُعَيۡنُ: چار برابر اضلاع والی شکل قائم

زاویہ کے علاوہ شکل معین بنانا۔
الْمُسْتَعَاۡةُ: بوڑھی عورت۔

عَسَاۡةٌ يَّعُوۡةُ عَوُوۡهَا وَعِيۡةُ الزَّرۡعِ: کھیتی کا
آفت رسیدہ ہوتا..... الرَّجُلُ: آفت رسیدہ

العَوَلُ وَاَلْعَوَالُ وَاَلْعَوِيۡلُ: بیچ کے ساتھ گریہ
وزاری۔ الْعَوَلُ: ہر تکلیف دہ کام۔ اہل و
عیال کی خوراک مدد طلب کیا ہوا۔

الْعَوَلُ: بھروسہ۔ اعتماد۔ مدد طلب کرتا۔
عمرہ۔ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ يَّعُوۡلِيۡ مِنَ النَّاسِ"
یعنی لوگوں میں فلاں آدمی میرے لئے قابل
اعتماد ہے۔

السَّعَالَةُ: شتر مرغ۔ بارش سے بچنے کے لئے
ککڑی وغیرہ کی جھوپڑی۔

عَيْلُ الرَّجُلِ: گھر کے لوگ جن کا نان فقط
واجب ہو مدد و مؤنت دونوں کو شامل ہے ج
عیال و عیائل و عاۃ.

المِعْوَلُ: کدال ج معاول.
السَّعُوۡلُ: جس سے فریاد کی جائے۔ جس پر

بھروسہ کیا جائے۔
عَامٌ يَّعُوۡمُ عَوْمًا فِي الْمَاءِ: تیرنا۔ صفت

عَانِمٌ. عَاثَمَتِ السَّفِيۡنَةَ فِي الْمَاءِ: کشتی کا
چلانا۔ عَامَ الزَّمَانِ: لگام کا بلنا۔ عَاثَمَتِ

النَّجْمُ: ستاروں کا چلانا۔
عَوُمٌ: کٹی ہوئی کھیتی کا دست دست رکھنا۔ عَوُمٌ

السَّفِيۡنَةُ: کشتی چلانا۔ کھینا..... الْكُرْمُ:
درخت خرما کا ایک سال چھوڑ کر پھل لانا۔

عَوُمَّتْ وَاَعَاوَمَتِ النَّخْلَةَ: درخت خرما کا
ایک سال چھوڑ کر پھل لانا۔ عَاوَمَ فُلَانٌ

فُلَانًا: ایک سال کے لئے کرایہ پر معاملہ
کرتا۔

اَعْوَمَ اِعْوَامًا: ایک سال کا ہونا۔ سال کے
اَوَّلِ میں ہونا۔

الْعَامُ: جمع عامۃ: کی۔ دن سال۔ ج اَعْوَامُ:
تصغیر عَوِيۡمُ: نسبت کے لئے عامی۔

الْعَامَاةُ: عمامہ کا بیچ۔ سوار کا سر جو میدان میں
دور سے نظر آئے۔ عَشِيٌّ: العامۃ: کٹی ہوئی

کھیتی کے جمع کئے ہوئے گھٹھے ج عام۔
العَوۡمَةُ: پانی میں تیرنے والا ایک کپڑا۔ ایک

قسم کا سائب ج عَوُمُ.
العَوَامُ: غانم: کا مالہ۔ تیز رفتار گھوڑا۔
العَوَاۡةُ: پھنسی کی ڈوری کی وہ ککڑی وغیرہ جو

فَلَاتِنَا: عیب کی طرف منسوب کرنا۔ غائب
الشئی: عیب ناک ہونا۔ صفت غائب۔

عَيْبٌ وَتَعْيِبُ الرَّجُلِ: عیب کی نسبت کرنا
..... الشئی: عیب دار بنانا۔

تَعَابٍ. الْقَوْمُ: ایک دوسرے کا عیب بیان
کرنا۔

العیب: مص۔ برائی۔ ج غُيُوب۔

العَيْبَةُ: ایک مرتبہ عیب جوئی۔ العَيْبُ:
چمڑے کی زنبیل۔ کپڑوں کے محفوظ رکھنے کا
صندوق۔ ج عَيْبٌ وَعِيَابٌ وَعَيْبَاتُ
وَالعَيْبَةُ مِنَ الرَّجُلِ: بھید کی جگہ۔

العاب: عیب برائی۔

العِيَابُ وَالعِيَابَةُ وَالعَيْبَةُ: برا عیب جو۔

المُعَابُ وَالْمُعَابَةُ: عیب۔ برائی۔ ج
مُعَابٍ۔

المُعَيْبُ وَالْمُعَيْبُوبُ: عیب دار۔

المُعَيْبُ: زنبیل بنانے والا۔

عَاتٌ يَعْجُبُ عَيْنًا وَعِيُونًا وَعَيْبَانًا الشئی:
فاسد کرنا..... فَعِي مَالِهِ: فضول خرچی کرنا اور
خرچ کرنے میں جلدی کرنا۔ صفت مذکر
عَيْبَانٌ: صفت مؤنث عَيْبَانِي.

عَيْثٌ: اندھیرے میں ہاتھ سے ٹولنا اور کہا
جاتا ہے عَيْثٌ يَفْعَلُ كَذَا: یعنی وہ ایسا
کرنے لگا۔

تَعَيْتُ الْإِبِلَ: سیرانی سے کم پینا۔

العَيْوُوثُ وَالْعَيْثَاتُ: بہت زیادہ فساد کرنے
والا..... وَالْعَالِثُ: شیر۔

العَيْفَةُ: ایک مرتبہ فساد انگیزی۔ زم زمین۔

عَاخٌ يَعْجِجُ عَيْجًا بِالشئی: پروا کرنا۔ کہا
جاتا ہے "لَا أَعْجِجُ بِكَلَامِهِ" یعنی میں اس کی

گفتگو کی پروا نہیں کرتا۔ وَمَا عَجِبْتُ بِالشئی:
یعنی میں اس پر راضی نہیں۔ "وَسُرِبْتُ

الدَّوَاءُ فَمَا عَجِبْتُ بِهِ" یعنی میں نے دوا پی
اور کوئی فائدہ نہیں اٹھایا (یہ کلمہ ہمیشہ منفی ہی

مستعمل ہوتا ہے۔)

عَاذٌ يَعْزُرُ عِزْرًا: حیرانی کے ساتھ آنا جانا

..... الْفَرَسُ: گھوڑے کا ناک کی سیدھ پر

بھاگنا کہ کوئی چیز اس کو پھیر نہ سکے۔ اسم
الْعِيَارُ..... فَلَاتِنَا: عیب لگانا۔ عَصَارَاتُ

الْقَصِيذَةِ: قصیدہ کا مشہور ہونا۔

عَيْسُرٌ فَلَاتِنَا: عار کی طرف نسبت کرنا۔ فعل کی

بُرَأَى بَيَانٌ كَرْنَا۔ كَمَا جَاتَا بِهٖ "عَيْسُرُهُ كَمَا
وَعَيْسُرُهُ بِكَمَا عَيْسُرُ الْمَاءِ" کائی والا ہونا۔

عَسَائِرٌ وَمُعَايِرَةٌ وَعِيَارًا الْمِكْنِيَالُ او

الْمِيْرَانُ: اندازہ کرنا۔ جَانِبًا۔ غَايِرٌ فَلَاتِنَا:
ایک دوسرے پر فخر کرنا۔

أَعَاذَ إِعَارَةَ الْفَرَسِ: چرنے کے لئے
چھوڑنا۔ موٹا کرنا۔

تَعَابِيرُ. الْقَوْمُ: ایک دوسرے کا عیب بیان

کرنا۔ ایک دوسرے کو شرم دلانا۔

العَارُ: عیب ہر وہ قول یا فعل جس سے انسان
کو شرم آئے۔ ج أَعْيَارُ۔

العَيْرُ: مص۔ گدھایا گور خراور گور خر کے معنی

میں زیادہ مستعمل ہے۔ ج أَعْيَارٌ وَعِيَارٌ

وَعِيُورٌ وَعِيُورَةٌ وَعِيَارَاتُ مَوْنُثٌ عَيْسُرَةٌ

العَيْسُرُ: بری بھری چیز۔ آکھ کی تیلی یا پکٹ

کھوٹی۔ کلزی جو ہودج کے آگے لگی ہوتی

ہے۔ پہاڑ۔ سردار۔ بادشاہ۔ ڈھول۔ عَيْرُ

الْمُقَدِّمُ: قدم کے وسط میں ابھرا ہوا حصہ۔

عَيْرُ النُّضْلِ: تیر کے پھل کا درمیان کا حصہ۔

عَيْرُ الْوَرَقَةِ: پتے کے درمیان کا خط۔

العَيْرُ: قبیلہ حمیر کا قافلہ۔ پھر سارے قافلوں

پر بولا جانے لگا۔ ج عَيْرَاتٌ وَعَيْرَاتُ.

العَايِرُ: فا۔ حیران۔ مزدور۔ چکر لگانے والا

سَهْمٌ عَائِرٌ: جس تیر کا چلانے والے معلوم نہ

ہو۔ سَآءَةٌ عَايِرَةٌ: بکری جو دو گلوں کے

درمیان پریشان ہو کہ کدھر جائے۔

العِيَارُ: جمع عَيْسُرٍ. عِيَارُ الشئی: ہر چیز کا

اندازہ ج عِيَارَاتُ عِيَارُ الْمَذْرَاهِمِ او

الدَّنَابِيْرِ: دراہم اور دنانیر کا شہید۔

العَيْسَارُ: بہت بھرنے والا۔ آوارہ گرد۔

فَرَسٌ عَيْسَارٌ: تیز رفتار گھوڑا۔

المُعْيَارُ: کسوٹی۔ ج مُعْيَارِي.

السُّعَارُ: مِنَ الخَيْلِ: گھوڑا جو مع سوار کے

راستہ سے ایک طرف ہو جائے۔

المُعَايِرُ: عیوب۔

المُسْتَعْيِرُ: جو گدھے کے مشابہ ہو۔ موٹا

گھوڑا۔

أَعْيَسٌ إِعْيَاسًا الزَّرْعُ: بھتی کا مرجھانا۔

خُتْکٌ ہونا۔

تَعَيْتُ. الْإِبِلُ: بھورے رنگ کا ہونا۔

العَيْسُ وَالعَيْسَةُ: بھورے رنگ کا ادب۔

العَيْسُ: بھورے رنگ کا ادب۔ واحد۔

مَذْرَعٌ أَعْيَسٌ: واحد مؤنث عَيْسَاءُ. العَيْسُ:

عمدہ قسم کے ادب۔ العَيْسَاءُ: مادہ مذی۔

عَيْسِيٌّ: عبرانی لفظ ہے نام ایک نبی (علیہ

السلام) کا ہے نسبت کے لئے عیسوی اور عیسوی

ہے۔

عَاشٌ يَعْيشُ عَيْشًا وَعَيْشَةً وَمَعَاشًا

وَمَعِيشًا وَمَعِيشَةً وَعَيْشُوشَةً: زندہ رہنا۔

عَيْشُهُ وَأَعَاشُهُ وَأَعَاشَةٌ: زندہ رکھنا۔

عَايِشُهُ: ساتھ زندگی بسر کرنا۔

تَعْيِشُ: اسباب زندگی کے لئے کوشش کرنا۔

تَعَايَشُوا. بِالْأَلْفَةِ وَالْمَوَدَّةِ: محبت و پیار

سے ایک ساتھ زندگی بسر کرنا۔

العَايِشُ: فا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ رَجُلٌ عَايِشٌ"

اس کی حالت اچھی ہے۔

العَيْشُ: مص۔ زندگی۔ کھانا۔ روٹی.....

وَالعَيْشَةُ: زندگی کی حالت۔

العِيَاشُ: روٹی بیچنے والا۔ کھانے بیچنے والا۔

عَايِشٌ: کامیاب۔

المُعَاشُ وَالْمُعَيْشَةُ: کھانے پینے کی جس

چیز سے زندگی بسر ہو سکے۔ زندگی کا ذریعہ۔

المُعَاشُ: زندگی کے گزرنے کے ڈھونڈنے کا

وقت یا زمانہ ج مُعَايِشُ.

المُعْتَيْشُ: فا۔ جس کے پاس کچھ گزر بسر کے

قابل ہو۔

العَيْصُ: جھجھان درخت۔ اچھے درختوں کے

اگنے کی جگہ۔ اصل۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مِصْنُ

عَيْصِ كَعْبُونِيمُ" یعنی شریف اصل سے ہے۔

ج أَعْيَاصُ وَعَيْصَانُ.

الْمُعِيصُ: درخت کے اگنے کی جگہ۔

عَاكْتُ تَعِيْطُ عَيْطًا. الْعُنُقُ: گردن لمبی ہونا۔

عَيْطٌ يَعْطِي عَيْطًا الرَّجُلُ: لمبی گردن کا ہونا۔ صفت مذکر عَيْطٌ: اور صفت مؤنث عَيْطَاءٌ ج عَيْطٌ.

عَيْطٌ تَعِيْطًا: چیخنا۔ چلانا۔

تَعِيْطٌ: تھمنا ک ہونا..... الْقَوْمُ: چیخنا۔ شور مچانا۔ تَعِيْطُ الْعُنُقُ: گردن لمبی ہونا۔ تَعِيْطُ الْعُوْدُ: ککڑی میں سے پانی جیسا بہہ کر گوند بن جانا۔

الْعِيَاطُ: چیخ۔ شور۔

الْعَايِطُ: فاجیخنے والا۔ ج عُطُوْطٌ وَعَيْطٌ وَعَيْطٌ وَ عُطُوْطٌ وَعَيْطَاتٌ: اور مہالہ کے لئے کہا جاتا ہے عَايِطٌ وَعَيْطٌ وَعُطُوْطٌ وَعُطُوْطٌ.

هَضْبَةُ عَيْطَاءٍ: اونچا ٹیلہ۔

عَاْفٌ يَعْيْفُ وَيَعَاْفُ عَيْفًا وَعِيَاْفًا وَعَيْفَانًا. الطَّعَامُ وَغَيْرُهُ: کراہت کی وجہ سے چھوڑ دینا۔

عَاْفٌ يَعْيْفُ عِيَاْفَةً. الطَّيْرُ: پرندہ اڑا کر شگون لینا۔

عَاْفٌ تَعِيْفٌ عَيْفًا الطَّيْرُ: منڈلانا اور اسم عَيْفَةٌ.

أَعَاْفٌ إِعَاْفَةً. الْقَوْمُ: پانی ناپسند کرنے والے جانوروں کا مالک ہونا۔

إِعْصَافٌ: اِغْيَافًا: سفر کے لئے توشہ لینا..... الطَّعَامُ وَغَيْرُهُ: ناپسندیدگی کی وجہ سے چھوڑ دینا۔

الْعَايِفُ: فاجگون لینے والا۔

الْعَيْفَةُ: ایک مرتبہ کمرہ جانا۔ عَيْفَةُ الطَّائِرِ: منڈلانا۔ پرندہ کا چکر۔

الْعَيْفَةُ: کراہت کی نوعیت۔ عمدہ مال۔

الْعَيْفَانُ وَالْعَيْوُفُ: شگون لینے والا۔ نَسْرٌ عَوَائِفُ: مقتولین پر منڈلانا والے گدہ۔

الْعَيْفَانُ: نفرت کرنے کا عادی۔

الْمُعِيْفُ: کمزور۔

الْمُعِيْفُ: شگون لینے والا۔ قال ثکالے والا۔

عَاَقٌ يَعْيِقُ عَيْقًا: بمعنی عَاَقٌ يَعْوُقُ عُوْقًا. عَاَكٌ يَعْيِكُ عَيْكًا: موٹلھے کو ہلاتے ہوئے چلنا۔

عَاَلَهُ يَعْيِلُهُ عَيْلًا وَمَعِيْلًا. الشَّيْءُ: عاجز کرنا۔ محتاج کرنا۔ عَاَلٌ فِي مَشِيْهِ: ناز و انداز سے چلنا۔

عَاَلٌ يَعْيِلُ عَيْلًا وَعَيْوَلًا وَعَيْوَلًا فِي الْأَرْضِ: جانا اور پھرنا۔

عَاَلٌ يَعْيِلُ عَيْلًا وَعَيْلَةً وَعَيْوَلًا وَمَعِيْلًا: محتاج ہونا۔ صفت عَائِلٌ: مؤنث عَائِلَةٌ اسم عَيْلَةٌ. عَاَلُ الرَّجُلِ: کثیر العیال ہونا۔

عَيْلٌ: کثیر العیال ہونا..... عَيْالُهُ: معاش کی کفالت کرنا..... الْقَوْمُ: عیال بنالینا۔ بیکار چھوڑ دینا..... فَرَسَةٌ: مہمل کر دینا۔ بے کار چھوڑ دینا۔

أَعْيَلٌ أَعْيَالًا: کثیر العیال ہونا۔ صفت مذکر مُعْيِلٌ: صفت مؤنث مُعْيِلَةٌ.

تَعْيَلٌ فِي الْمَشِيِ: ناز و انداز سے چلنا۔

العَائِلُ: فاجمحتاج عَاَلَةٌ وَعَيْلٌ وَعَيْلٌ وَعَيْلِيٌّ.

العَيْلَانُ: زربو۔

عَيْلُ الرَّجُلِ: گھر کے لوگ ج عَائِلٌ. عَيْلَةُ الرَّجُلِ وَعَائِلَتُهُ: گھر کے لوگ جن کا نان نفقہ واجب ہو۔ کہا جاتا ہے "أَمْسَيْتُ أَخَا عَيْلَتِي" یعنی فقیر محتاج ہو گیا۔

العَاَلَةُ: فاقہ۔

العِيَالُ: ناز سے چلنے والا۔

العِيَالَةُ الْمَعَاَلَةُ: لِلْبُرْدُوْنِ وَغَيْرِهِ: چارہ۔ رَجُلٌ مُعْيَلٌ: صاحب عیال۔ اہل و عیال والا۔

عَاَمٌ يَعْاَمُ وَيَعْيِمُ عَيْمًا وَعَيْمَةً: دودھ کا خواہش مند ہونا۔

أَعَاَمَهُ إِعَاَمَةً. اللّٰهُ: بغیر دودھ کے چھوڑنا۔

أَعَاَمَ الرَّجُلُ: بغیر دودھ کے رہنا۔ الْقَوْمُ:

دودھ کم ہونا۔

إِعْتَامٌ إِعْتِيَامًا: عمدہ مال چھانٹ لینا۔

العَيْمَةُ: دودھ کی بہت زیادہ خواہش۔

العَيْمَةُ: عمدہ مال۔

العِيَامُ: دن۔ کہا جاتا ہے "بَسْرُنَا الْعِيَامُ كَلَّةٌ" یعنی سارے دن چلنا رہا۔

السَّيْمَانُ: دودھ کا خواہش مند۔ مؤنث عَيْمِيٌّ ج عِيَامِيٌّ.

عَاَنٌ يَعْيِنُ عَيْنًا. الرَّجُلُ: نظر لگانا۔ صفت عَائِنٌ: صفت مفعولی مَعِيْنٌ وَمَعِيُونٌ (عَيْنًا وَعَيْانًا وَعَيْانًا) الْمَاءُ أَوِ اللَّحْمُ: پانی یا آسوجاری ہونا۔ عَاَنَتِ الْبِئْرُ: کنوئیں کا بہت پانی والا ہونا۔ کہا جاتا ہے "حَضْرَتْ حَتَّى عَيْتٌ" یعنی میں نے کھودا یہاں تک کہ پانی کے چشمہ تک پہنچ گیا۔

(..... عِيَانَةُ) الْقَوْمُ: خبر لانا..... عَلَى الْقَوْمِ: جاسوس بننا۔

عَيْنٌ يَعْيِنُ عَيْنًا وَعَيْنَةً: آنکھ کی بڑی چوڑی تکی والا ہونا۔

عَيْنٌ تَعِيْنًا. الشَّجَرُ: سرسبز ہونا۔ شُكُوْفٌ دَارٌ ہونا..... النَّاجِرُ: سامان کو ایک مدت کے وعدے پر بیچنا اور پھر پہلے ٹمن سے کم میں دوبارہ خرید لینا..... الْعَيْنُ: عین کو لکھنا..... اللُّوْلُوَةُ: بندھنا۔

الْقِرْبَةُ: منک میں پانی ڈالنا تاکہ سلائی کے سوراخ بند ہو جائیں..... الْحَضْرَبُ بَيْنَنَا: لڑائی جاری کر دینا..... الشَّيْءُ: خاص کرنا۔

عَلِمَهُ كَرْنَا..... فُلَاثًا: برائیوں کو رو رو کر کہہ دینا..... عَلِيٌّ فَلَانٌ: جاسوسی کرنا..... عَلِيٌّ الشَّارِقُ: بہتیمین میں سے چور کو متعین کرنا..... الشَّيْءُ لِفُلَانٍ: کسی کے لئے مخصوص کر دینا۔ کہا جاتا ہے "مَا عَيْنَ لِيْ بَشِيٍّ وَمَا عَيْنِيْ شَيْئًا" یعنی مجھ کو کچھ نہیں دیا۔

أَعَاَنَ إِعَاَمَةً: دیکھو مادہ عَوْنُ۔ کہا جاتا ہے "حَضْرَتْ حَتَّى أَعَيْتُ" یعنی میں نے کھودا یہاں تک کہ پانی کے چشموں تک پہنچ گیا۔

"وَمَا أَعَيْنَهُ" وہ کتابد نظر ہے۔

عَائِنَةُ عَيْنَانَا وَمُعَانِيَةٌ: خود دیکھنا۔ معائنہ کرنا۔

تَعَيْنَتْهُ: نظر بد لگنا۔ تَعَيْنَ الرَّجُلُ: یقینی طور پر دیکھنا۔ تَعَيْنَ الشَّيْءَ: دیکھنا۔ الجِلْدُ: کھال کا آلہ دار ہونا۔ الرَّجُلُ: کسی شے کے حاصل کرنے کے لئے توقف کرنا۔ تَعَيْنَ عَلَيْهِ الشَّيْءَ: معین چیز پر لازم ہونا۔ السَّقَاءُ: کہنگی کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے دائرے پڑ جانا۔

إِعْتَانَ الشَّيْءَ: عمدہ لے لینا۔ ادھار خریدنا۔ الْقَوْمُ: خبر لانا۔ لِفُلَانٍ مِّنْزِلًا: تلاش کرنا۔

العائین: فاعل کہا جاتا ہے "مابالذَّارِ عائین" یعنی کوئی نہیں "وَضَرَبَ مِنْ عَائِنٍ" یعنی بپتے ہوئے پانی سے پیا۔

العائنة: مؤنث عائین: کہا جاتا ہے "لَقِيْنَةُ أَوَّلَ عَائِنَةٍ وَأَدْنَى عَائِنَةٍ" یعنی ہر چیز سے پہلے عائنة بنی فلان: مال و محافین مال۔

العین: موصوفہ۔ آکھ۔ آکھ۔ آکھ کے ڈھیلے پر بولا جاتا ہے۔ یا پلک وغیرہ سمیت سب پر اطلاق ہوتا ہے۔ کلمہ مؤنث ہے جِ اعْيُنٌ وَعْيُونٌ وَعَيْنُونَ وَأَعْيَانٌ وَجِ اعْيِنَاتٌ اور لتغییر غَيْنَةٌ۔

العین: اہل شہر۔ اہل مکان۔ بد نظری۔ کہا جاتا ہے "بہ عین" یعنی وہ بد نظر ہے انسان اور اسی سے ہے "مابالذَّارِ عین" یعنی کوئی نہیں۔

خالص۔ واضح۔ کہا جاتا ہے "ذَكَرَ الْحَقُّ بَعِيْنِهِ" یعنی حق کو خالص اور واضح طریقہ سے بیان کیا۔ نفیس۔ عزت۔ جھنڈا۔ عین

الانرسية: سوئی کا تانہ۔ دیدبان۔ جاسوس۔ جماعت۔ ہر موجودہ چیز۔ کہا جاتا ہے "بَعْنُهُ عَيْنًا بَعِيْنٌ" یعنی موجود کو موجود سے بچا۔ عمدہ چیز۔

کھال کے چھوٹے چھوٹے حلقے۔ دینار۔ نقد موجود۔ ذات شئی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ هُوَ عَيْنًا" یا "بَعِيْنُهُ"۔ سود۔ سروار۔ شریف قوم۔ کمانڈر۔ فوج کا

ہراول۔ آفتاب یا شعاع۔ مال۔ تیار مال۔ نالی کے پانی کے گرنے کی جگہ۔ کنوئیں کے پانی

پھوٹنے کی جگہ۔ پانی کا چشمہ جِ اعْيُنٌ وَعْيُونٌ: ترازو کا جھکاؤ۔ گوشہ۔ نظر۔ دیکھنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ عَيْنٌ عَلَيَّ فُلَانٌ" یعنی فلاں

فلاں کے اوپر نگہبان ہے۔ "هُوَ عَبْدٌ عَيْنٍ" او صِدِيْقٌ عَيْنٍ" وہ دکھاوے کا خادم یا دوست ہے لَقِيْنَةُ عَيْنٍ غَنَةٌ: میں اس کو ایسی حالت میں ملا کہ

اس نے مجھے نہیں دیکھا "لَقِيْنَةُ أَوَّلَ عَيْنٍ" میں نے اس سے سب سے پہلے ملاقات کی "لَا تَطْلُبُ آثَرَ ابْعَدَ عَيْنٍ" یعنی بعد معائنہ کے اثر کو

مت طلب کرو اور یہ ضرب المثل ہے اس شخص کے لئے جو کسی چیز کو دیکھے اور چھوڑ دے اور اس چیز کے مفقود ہونے کے بعد اس کے نشان کے

پیچھے پڑ جائے۔ "صَارَ خَيْرًا ابْعَدَ عَيْنٍ" و "أَنْتَ عَلَيَّ عَيْنِي" تم میری حفاظت میں ہو تمہارا اکرام میری نگاہ میں ہے "هَا هُوَ عَرَضٌ

عَيْنٍ" یعنی وہ قریب ہے "فَعَلَّهُ عَلَيَّ عَيْنٍ وَعَلَيَّ عَيْنِيْنٍ وَعَمْدًا عَيْنٍ وَعَمْدًا عَيْنِيْنٍ" یعنی یقین کے ساتھ کوشش

کی۔ و فَعَلًا عَيْنَةً: یعنی اسے طمانچہ مارا اور سخت ست کہا "وَنَعِمَ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا" اللہ تمہاری آکھ کو ٹھنڈی رکھے۔

العین: تیل گائے۔ العین: موصوفہ۔ اہل شہر۔ جماعت۔

العینان: موصوفہ۔ شخص۔ کہا جاتا ہے "لَقِيْتُهُ أَوْ رَأَيْتُهُ عَيْنَانَا" یعنی اس نے اس سے ملاقات کی یا اس کو دیکھا اور اس کے دیکھنے میں کوئی شک

نہیں۔ العینان: اہل کا پھل جِ عَيْنٌ وَأَعْيِنَةٌ۔ العينة: عمدہ مال۔ عَيْنَةُ الْخَيْلِ: عمدہ گھوڑے۔ العينة مِنَ الشَّجَرَةِ: بکری کی

آکھ کا گردا گرد۔ عَيْنَةُ الْحَرْبِ: مادہ جنگ۔ کہا جاتا ہے "تَوُوبَ عَيْنَةً" خوش نما کپڑا۔ بَيْعُ الْعَيْنَةِ: کسی چیز کو اس کی اصلی

قیمت سے زیادہ قیمت پر ادھار بیچنا۔ العياني مِنَ الشَّهْوَةِ: یعنی گواہ۔ العينية: عین کی طرف منسوب۔

العيون: بہت نظر لگانے والا۔ جِ عَيْنٌ وَعَيْنٌ. الاغين: وہ شخص جس کی پٹلی بڑی اور چوڑی ہو۔ مؤنث عَيْنَانُ جِ عَيْنٍ. الاغين: جنگلی

تیل۔ العیناء: خوبصورت آنکھ والی۔ بہترین کلمہ۔ کہا جاتا ہے "أَرْضٌ عَيْنَاءٌ" یعنی سرسبز زمین۔

المُعَانِيَةُ: موصوفہ۔ برادری۔ الممان: منزل۔ کہا جاتا ہے "هُمْ وَمَنْكَ بِمَمْعَانَ" یعنی وہ لوگ ایسی جگہ میں ہیں کہ تم ان کو دیکھ سکتے ہو۔

العيان والمعيان: بہت نظر لگانے والا۔ الماء المعين والمعيون: جاری پانی۔ عَيْنٌ مَعْيُونَةٌ: بہت پانی والا چشمہ۔

المُعِينُ فَ"فِي الْهِنْدِيَّةِ" شکل سطح مساوی الاضلاع۔ الموعين: مفتح۔ تیل۔ آنکھ کی شکل کا منقش کپڑا۔ رِيَّةٌ مَعْيِنَةٌ وَمَعْيِنَةٌ: یعنی نیت ظاہرہ۔

المُعْتَانُ: گھاس پالی تلاش کرنے والا۔ عَاهَ يَعْيهُ عَيْهًا: آفت پہنچنا۔

العائهة: شور۔ جِج۔ العاهة: آفت۔ ارض مَعْيُوْهَةٌ: آفت رسیدہ زمین۔

عَيْيٌ يَعْيِيٌّ وَعَيْيٌ يَعْيِيٌّ وَعَيْيٌ يَعْيِيٌّ بِأَمْرِهِ وَعَيْنٌ أَمْرِهِ: عاجز ہونا۔ ناقابل ہونا۔ الْأَمْرُ: جاہل ہونا۔

عَيْيٌ يَعْيِيٌّ عَيْيًا: فِی الْمَنْطِقِ: کلام میں رک جانا۔ عاجز ہونا۔ صفت عَيْيٌ وَعَيْيٌ۔

عَيْيًا تَعْيِيَةً وَعَيْيًا مُعَايَاةً - الرَّجُلُ: غیر مفہوم کلام کہنا۔ عَيْيًا صَاحِبَةٌ: پیچیدہ گفتگو کرنا۔

أَعْيَا أَعْيَاءُ الْمَائِي: جلنے والے کا تھکنا۔ أَعْيَاءُ: تھکانا۔ أَعْيَا الدَّاءُ الطَّيِّبُ: مرض کا طیب ہو کر عاجز کر دینا۔ الْأَمْرُ عَلَيْهِ: عاجز بنا دینا۔

تَعَايَا الْأَمْرُ عَلَيْهِ وَتَعَايَا عَلَيْهِ وَتَعَايَا: عاجز کرنا۔ تَعَايَا وَتَعَايَا وَاسْتَعَايَا بِالْأَمْرِ: ناقابل ہونا۔ طاقت نہ رکھنا۔

القياء: موصوفہ۔ عاجزی۔ وَاءٌ عَيَْاءٌ: ناقابل علاج مرض۔ العي: تھکنے والا۔ گفتگو میں عاجز۔ جِ أَعْيَاءُ. العي: تھکنے والا۔ گفتگو میں عاجز۔ جِ أَعْيَاءُ وَعَيْيَةٌ۔

العيان: تھکا ہوا۔ عاجز۔ الْأَعْيِيَةُ: پیچیدہ کلام۔ الْمُعْيِي: تھکا ہوا۔ عاجز۔



غ : أَلْعَيْنُ : انیسواں حرف بنیادی حروف میں سے۔ حرف حلقی میں سے ہے۔

غَب (ن) غَبَا وَغَبَا : چند دن کے بعد ملاقات کرنا۔ غَنَهُ : ایک دن ناغہ دے کر آنا۔ غَبْتُ عَلَيْهِ الْحُمَى : بخارا کا ایک دن ناغہ دے کر آنا۔ غَبَّ عِنْدَهُ : رات بسر کرنا۔ الرَّاغِي : رائے اختیار کرنے میں توقف کرنا۔

غَبَا وَغَبَا وَغُبُوبًا وَغُبُوبَةً : کھانے کا پاشی ہونا۔ بدبودار ہونا۔ غَبَّتِ الْأُمُورُ : کاموں کا انتہا کو پہنچنا۔

غَبَّتْ (ش) غَبَا وَغَبَا وَغُبُوبًا الْمَاشِيَةَ : جانوروں کو ایک دن ناغہ دے کر پانی پینا۔ صفت غَابَةٌ : ج غَوَابٌ وَغَابَاتٌ .

أَغَبَّ الْمَاشِيَةَ : جانوروں کو ایک دن ناغہ دے کر پانی پلانا۔ القَوْمُ : ایک دن ناغہ دے کر ملاقات کو آنا۔ أَعْبَيْتُهُ الْحُمَى : وَأَعْبَيْتُ عَلَيْهِ : تیسرے دن بخارا آنا۔ أَعَبَّ الطَّعَامُ : کھانے کا بدبودار ہونا۔ عِنْدَهُ : رات بسر کرنا۔

عَبَبَ الشَّيْءُ : فاسد ہونا۔ فِى الْأَمْرِ : مبالغہ کرنا۔ عَنْهُمْ : دفع کرنا الدُّنْبُ بھیرے کا بکری وغیرہ کے گلے کو پکڑ لینا۔

الغَابُ : فاشی گوشت۔ نَجِمُ غَابٌ : ثابت ستارہ۔

الغَبُّ : مہس۔ نتیجہ انجام۔ بمعنی بعد۔ حُمَى : الغَبُّ : تیسرے دن کا بخارا اور صفت موصوف کی صورت میں حُمَى غِبُّ بھی بولا

جاتا ہے۔ مَاءٌ غَبٌّ : دور کا پانی ج غَاب .

الغَب : لہر جو کنارے سے لگائے۔ پست زمین۔ ج غَابَابٌ وَغُبُوبٌ وَغَبَانٌ .

الغَبَّةُ : زندگی کے گزر بسر کا تھوڑا سامان۔

الغَبِيبُ : مرغ اور تیل وغیرہ کے حلق کے نیچے لٹکنے والا گوشت۔ ج غَابَابٌ .

الغَبِيبُ : ہاشی گوشت۔ چھوٹی ندی پہاڑی یا زینتی۔

الغَبِيبَةُ : صبح کا دودھ کہ اسی پر شام کو دوبا جائے۔ اور پھر اگلے دن بلویا جائے۔

الغَبِيبَةُ : چھوٹی شہادت۔ المَغْبِيبُ : شیر۔

المَغْبِيبَةُ : انجام۔ المَغْبِيبُ : انجام کا انتظار کرنے والا۔

غَبَّتْ (ن) غَبَّشًا : الجَبْنُ بِالسَّمَنِ : بیکر کو گھی سے لت کرنا۔

إِغْبَيْتُ : نمیا لارنگ کا ہونا۔ صفت "أَغْبَيْتُ" . الغَبِيبَةُ : نمیا لارنگ۔

غَبِيجٌ (س) غَبَجًا : السماء : لگا تار گھونٹ گھونٹ پینا۔ الغَبِيجَةُ : گھونٹ۔

غَبَّرَ (ن) غَبَّرًا : گزرتا۔ مَظْهَرًا : گرد آلود ہونا۔

غَبِرَ (س) غَبِرًا : الجُرْحُ : زخم کا خراب ہو کر مند مل ہونا اور پھر ٹوٹ جانا۔ صفت "غَبِرٌ" : خراب لگانا۔

غَبَّرَ : غبار اڑانا۔ الشَّيْءُ : غبار میں تھینا۔ الرَّجُلُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ : کہا۔ یا قرأت

وغیرہ میں آواز کو لانا اور کہا جاتا ہے "غَبَّرَ" فِى وَجْهِ فَلَانٍ " اس نے فلاں کے چہرہ میں غبار ڈال دیا یعنی بڑھ گیا۔

أَغْبَرُ : غبار اڑانا۔ گرد آلود ہونا۔ فِى الْأَمْرِ : متوجہ ہونا اور کوشش کرنا۔ أَعْبَرَتِ السَّمَاءُ : زور سے برستا۔

أَغْبَرُ : گرد آلود ہونا۔ النُّيُومُ : بہت غبار والا ہونا۔

الغَبْرُ : چیز کا بقیہ۔ ج غَابَارٌ .

الغَبْرُ : چیز کا بقیہ۔ ج غَبْرَاتٌ کہا جاتا ہے "غَبْرُ الْمَرْضَى" یعنی مرض کا بقیہ۔

الغَبْرَةُ : خاکستری رنگ۔ والغَبْرَةُ : والغَبَارُ : مٹی۔ خاک۔

الغَبْرُ : بقاء۔ ذَاهِيَةُ الْغَبْرِ : منقطع نہ ہونے والی بڑی مصیبت۔ مٹی۔

الغَبْرَةُ : گرد۔ غبار۔

الغَبْرُ : گرد و غبار۔ نَاسُورٌ : جُرْحٌ عَجِيزٌ : خراب شدہ زخم۔

الْأَغْبَرُ : خاکستری رنگ والا۔ بھیر یا۔ جانے والا۔ کہا جاتا ہے "لَا يَغْبُرُ نَكَّ عَزْرُ الدُّنْيَا لِأَنَّهَا أَعْبَرُ" دنیا کی عزت تم کو دھوکا نہ دے اس لئے کہ وہ جانے والی ہے۔ ج غَبْرٌ ۔ سخت بھوک کی صفت میں یہ لفظ مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے "الجُوعُ الْأَغْبَرُ" والغَبْرُ : الأَحْمَرُ .

الغَبْرَاءُ : مؤنث أَعْبَرُ : مادہ چکور۔ زمین۔ کہا جاتا ہے "مَا أَظْلَمَتِ الْخَضْرَاءُ وَلَا أَقْلَمَتِ الْغَبْرَاءُ مِثْلَ فَلَانٍ" مثل فلاں پر نہ تو آسمان

وغیرہ میں آواز کو لانا اور کہا جاتا ہے "غَبَّرَ" فِى وَجْهِ فَلَانٍ " اس نے فلاں کے چہرہ میں غبار ڈال دیا یعنی بڑھ گیا۔

أَغْبَرُ : غبار اڑانا۔ گرد آلود ہونا۔ فِى الْأَمْرِ : متوجہ ہونا اور کوشش کرنا۔ أَعْبَرَتِ السَّمَاءُ : زور سے برستا۔

غَبْرَاءُ وَبَنُو الْغَبْرَاءِ: فقراء۔ بسنة غَبْرَاءُ: خشک سال۔	کسی کی نعمت کو دیکھ کر ویسا ہی اپنے لئے بھی تمنا کرنا۔ صفت (غَابِطٌ) ج غَبِطٌ۔ غَبِطَةٌ: رشک دلانا۔
الغَبْرَاءُ: چینا کی شراب۔ ایک قسم کا پودہ۔	أَغْبَطُ: السحاب: لگا تار بارش ہونا۔ کہا جاتا ہے "أَغْبَطَ عَلَيْنَا الْمَطَرُ" الثبات: زمین کو ڈھانپ لینا۔ أَغْبَطْتُ الْحُمَى عَلَيْهِ: بخار کا لگا تار رہنا۔
الغَبْرَانُ: ایک غلاف میں دو کھجور۔	إِغْبِطْ وَأَغْبِطْ: خوشی اور اچھی حالت میں رہنا۔
الغَابِرُ: فنا۔ گزرا ہوا۔ باقی کہا جاتا ہے "وَهُوَ غَابِرٌ بَنِي فَلَانٍ" وہ بنی فلان کا بقیہ ہے۔	الغَبْطُ وَالغَبِطُ: کئی ہوئی کھیتی کے مٹھے ج غَبُوطٌ۔
الغَبْرُ اللَّيْلُ: رات کا آخری حصہ۔ غَبْرُ النَّاسِ: رتبہ کے لحاظ سے آخری۔	الغَبِطَةُ: حسن حال خوش رشک پادری کا لقب۔
السِّغْبَارُ: مِنَ السَّخْلِ وَغَيْرِهَا: گرد آلود۔ درخت خرما وغیرہ۔	الغَبِيطُ: کجاوہ۔ پست زمین جس کے دونوں طرف بلندی ہو۔ پانی کی لہر جو زمین کی بلندی کو کاٹ دے۔ ج غَبِطٌ۔
المُغْبَرَةُ: وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے رہیں۔	الغَبُوطُ مِنَ النَّوْفِيِّ: اونٹنی جس کی چربی بغیر ہاتھ سے نٹولے ہوئے معلوم نہ ہو۔
غَبَسَ (ن) غَبَسًا وَأَغْبَسَ وَإِغْبَسَ وَإِغْبَاسَ: اللَّيْلُ: رات کا تاریک ہونا۔ صفت (أَغْبَسَ) ج غَبَسَ: أَيْغَسَ الشَّيْءُ: خاکستری رنگ کا ہونا۔	سَمَاءٌ (غَبِطِي) لگا تار برسنے والا بادل۔
الغَبْسَةُ وَالغَبْسُ: خاکستری رنگ۔ رات کی ابتدائی تاریکی۔	أَرْضٌ (مُغْبَطَةٌ) نباتات سے گھری ہوئی زمین۔
غَبَشَ (س) غَبَشًا وَأَغْبَشَ: اللَّيْلُ: رات کی تاریکی کا صبح کی سفیدی سے مخلوط ہونا۔	الغَبْيَبُ: گائے یا مرغ کے گلے کے نیچے کا لٹکا ہوا گوشت۔
تَغْبِشُهُ: دھوکا دینا۔ ظلم کرنا۔ جھوٹا دعویٰ کرنا۔	غَبَقَهُ (ن ض) غَبَقًا وَغَبَقَهُ: شام کو پینے کی چیز بلانا۔ غَبَقَ الْغَنَمَ: بکری کو شام کو پلانا یا دوہنا۔
الغَبِشُ: رات کا بقیہ۔ آخری رات کی تاریکی جِغَابِشٍ۔	إِغْبَيْتِي: شام کو پینے کی چیز چینا..... الخمر: شام کے وقت شراب پینا..... (تَغْبَيْتِي) النَّاقَةُ: شام کے وقت دوہنا۔ (الغَبُوقُ) شام کو پینے کی چیز اور یہ مبروح کے خلاف ہے۔ وہ جو شام کو دوہا جائے (الغَبُوقُ وَالغَبُوقَةُ) اونٹنی جو شام کو دوہی جائے۔ ج غَبَائِقُ تَمَّ كَبْتِهِ "بِالْقَبِيئَةِ ذَا صُبُوحٍ وَذَا غَبُوقِي" یعنی میں نے صبح اور شام میں ملاقات کی۔
الغَبِشَةُ: دھوکا باز۔ فریبی ظالم۔	غَبِصَتْ (س) غَبِصًا: الغَيْنُ: ہمیشہ رونے کی وجہ سے بہت کچھڑ والی ہونا۔
الغَبِشَةُ: رات کا بقیہ۔ اللَّيْلُ (غَبِشٌ وَأَغْبَشٌ) تاریک رات۔ وَلَيْلَةُ غَبِشَاءَ ج غَبِشٍ۔	السَّقِيسُ: آکٹھ کی کچھڑ۔ کہا جاتا ہے "فَسِي غَبِيهِ غَبِصٌ" اس کی آکٹھ میں کچھڑ ہے۔
غَبِصَتْ (س) غَبِصًا: الغَيْنُ: ہمیشہ رونے کی وجہ سے بہت کچھڑ والی ہونا۔	غَبِطَ (ض) غَبِطًا: الكَبَشُ: مینڈھے کا موٹا یا معلوم کرنے کے لئے ہاتھ سے ٹٹولنا۔
غَبِصَتْ (س) غَبِصًا: الغَيْنُ: ہمیشہ رونے کی وجہ سے بہت کچھڑ والی ہونا۔	غَبِطَةُ (ض) وَغَبِطٌ (ف) غَبِطًا وَغَبِطَةٌ

الغَبَقَانُ: شام کے وقت پینے والا۔ کہا جاتا ہے "زَجَلْ غَبَقَانِ امْرَأَةً غَبَقِي" ج غَبَقِي۔

غَبِنَ (ن) غَبِنًا: الثُّوبُ: کپڑے کو تنگ یا چھوٹا کرنے کے لئے موڑ کر سینا..... الرَّجُلُ كَمَنْ: کسی کے سامنے اس طرح گزر جانا کہ نہ وہ دیکھے نہ اسے علم ہو..... السُّطْعَامُ: کھانے کو حاجت کے وقت کے لئے چھپانا۔

غَبِنَهُ (ن) غَبِنًا وَغَبِنًا: الشَّيْءُ وَفِيهِ: بھولنا۔ غلطی کرنا۔ (غَبِنًا وَغَبَانَةً زَايَةً) کم سمجھ ہونا۔ کند ذہن ہونا۔

تَغَابَنَ: بعض کا بعض کو نقصان پہنچانا۔

إِغْبَيْنَ: الشَّيْءُ: بغل میں چھپانا۔

الغَبِينُ وَالغَبِينُ: مسم۔ خرید و فروخت میں دھوکا..... وَالغَبَانَةُ: کند ذہنی۔ بھول چوک۔

الغَبِينُ: کپڑے کی کترن۔

الغَبَائِنُ: فنا۔ کام سے سستی کرنے والا۔ کام چور۔

الغَبِينُ وَالْمَغْبُوقُ: کم سمجھ۔

الْقَيْنُ وَالْقَيْنُ وَالْقَبَانَةُ: کم زور رائے۔ بھول جانا۔

الغَبِيئَةُ: دھوکا۔

الْمَغَابِنَةُ: خرید و فروخت میں نقصان۔

الْمَغْبِينُ: بغل۔ جسم کی لوٹ جِغَابِينُ۔

غَبِيٌّ يَغْبِي غَبًا وَغَبَاوَةً: الشَّيْءُ وَعَنْهُ: ناکھجھ ہونا۔ کند ذہن ہونا..... الشَّيْءُ عَلَيْهِ: مخفی رہنا..... عَنْهُ الْخَيْرُ: جاہل ہونا۔ غافل ہونا۔ مِنْهُ الشَّيْءُ: مخفی ہونا۔

تَغَابَنَ عَنْهُ تَغَابِيًا وَتَغَابَاهُ: غفلت برتنا۔

تَغَابَاهُ وَاسْتَفْبَاهُ: غبی جانا۔ غبی سمجھنا۔

الغَبَاءُ: زمین کی پوشیدگی..... مِنَ التَّرَابِ: بلند بخار۔

الغَبُوةُ وَالغَبُوةُ: غفلت۔

الغَبَاوَةُ وَالغَبِيَّةُ: جہالت۔ ناسمجھی۔ غفلت۔

الغبی: کم سمجھ جاہل ج اُغبیاء و اُغباء۔ غبی تغبیة: الشئی: چھپانا..... الشُّعْر: بال کوچھوٹا کرنا یا جڑ سے اکھڑنا۔	ناموافق ہونا..... السُّرْح: زخم سے پیپ وغیرہ بہنا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ لَا یَغُثُ عَلَیْهِ شئی" یعنی کسی چیز کے متعلق نہیں کہتا کہ وہ ردی ہے تاکہ اس کو چھوڑ دے۔
أغنی: السُّحَاب: کم برسا بو چھار برسانا۔ الغناء: مِنَ الثَّرَاب: بلند غبار۔ الغنیة: کم بارش یا بو چھار۔	أغث: دو بلا ہونا۔ فاسد ہونا۔ فی السُّحَاب: کلام: بے کار گفتگو کرنا..... السُّحْم: دہلا گوشت خریدنا۔
مِن الثَّرَاب: بلند غبار۔ کہا جاتا ہے "نساء علی غبیة من الشمس" یعنی آفتاب سے غائب ہونے کے وقت آیا۔	اغثت: السُّحْب: موسم بہار کی گھاس پر پہنچنا۔
الأغشی من الأغصان: گنجان نہیں۔ مؤنث غبیاء ج غبی شجرۃ غبیاء: گنجان درخت۔	تغثت: الشئی: کم سمجھنا۔ استغث: الجرح: علاج کر کے پیپ وغیرہ نکالنا۔
المغیة: درندہ جانوروں کے شکار کا گڑھا۔ ج مغاب۔	الغث: دہلا۔ من السُّحَاب: ردی کلام۔ الغیث: دہلا۔
عُث (ن) عُثَا الطَّعَامُ او الکَلَام: خراب ہونا..... الشئی فی المَاء: پانی میں ڈبونا فَلَانًا: غمگین کرنا گھاٹھوٹنا..... فَلَانًا بِالْأَمْرِ تھکانا اور غمگین کرنا..... ہ بالکَلَام: سرزنش کرنا۔ عُث الضَّحْک: ہاتھ یا کپڑا رکھ کر ہنسی روکنا..... المَاء: برتن کے منہ سے بغیر علیحدہ کئے ہوئے گھونٹ گھونٹ پانی پینا۔	عُثِث السُّرْح و عُثِثَةُ: پیپ خون وغیرہ۔ الغیثة: بے فائدہ چیز۔ عقل کا ٹور۔ عُثْر (ن) عُثْرَا: المَکَانُ بِالنَّبَات: سبزی سے لہلہانا۔ أعثر: السُّجْر: درخت سے گوند بہنا۔ إعثر: السُّوب: زیادہ روواں والا ہونا۔ صفت (أعثر)
عُثت و أعتت: الطَّعَام: کھانے کو خراب کرنا۔ بگاڑنا۔	العُثْر و العُثْرَة و العُثْرَاء و العُثْرَة: کینے لوگ۔
عُثِل (س) عُثِلَا: المَکَان: بہت درخت والا ہونا۔ صفت (عُثِل)	العُثْرَة: ارزانی و تروتازگی۔ العُثْرَة: سبزی مائل بھورا یا سرخ رنگ۔ الأعثر: سبزی مائل بھورا یا سرخ رنگ والا مؤنث (عُثْرَاء) ج عُثْر: زیادہ اون کا کبل۔ شیر، بھیڑیا، بچھڑ۔ جاہل۔
العُثم: سخت گرمی جس سے دم گھٹے۔ العُثمَة: گفتگو میں رکاوٹ۔	المعثر و المعثر: ج عُثْر: زیادہ اون کا کبل۔ شیر، بھیڑیا، بچھڑ۔ جاہل۔
الأعثم و الغثمی: جو اچھی طرح گفتگو نہ کر سکے۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ أَعَثَمَ وَقَوْمٌ عَثَمَ وَأَعَثَمَ وَاِمْرَأَةٌ عَثْمَاءُ"۔	المعثر و المعثر: ج عُثْر: زیادہ اون کا کبل۔ شیر، بھیڑیا، بچھڑ۔ جاہل۔
عُثِب (ض-س) عُثَابَة و عُثُوفَة الشَّيَا: کبری کا دہلا ہونا۔ کمزور ہونا۔ صفت (عُثِب)	أرض (مُعَثْرِيَة) سبزہ سے لہلہانے والی زمین۔
..... السُّحْم: لآخر ہونا..... حَدِيثُ القَوْم: ردی ہونا۔ فاسد ہونا۔	عُثَم (ن) عُثْمَالَة: یکبارگی عمدہ مال دینا۔ الغثمة: اوجھ کا وہ حصہ جس میں بہت سے پر ت ہوتے ہیں۔
عُث (ض) عُثَا و عُثِثَا: عَلَیْهِ المَکَان: غٹ	أعثره: پیچھے چھوڑنا۔ آگے بڑھ جانا۔ باقی

اس کو ہلاک کرے۔	کپڑا کاٹنا۔	رکھنا۔ کپڑے میں پھینکنا۔ اَعْدَرَ اللَّيْلُ: رات کا تاریک ہونا۔
غَدَى: الرَّجُلُ: دن کے ابتدائی حصہ میں کھانا۔	إِغْدَوْذَف: اللَّيْلُ: رات کا آنا۔ تاریک ہونا۔ الْغَادِف: ملاح۔	غَاذَرَهُ غَدَارًا وَمُغَادَرَةً: چھوڑ دینا۔ باقی رکھنا۔
غَادَى مُغَادَاةً: الرَّجُلُ: صبح کے وقت آنا۔	الغُداف: لہیا کا لاپال۔ سیاہ بازو۔ بڑا گوا۔ بڑا گدھ۔ ج غَدِفَان.	تَغَدَّرَ: پیچھے رہ جانا۔
الغَد: آئندہ کل۔ دور کا دن جس کا انتظار ہو۔ نسبت کے لئے (غَدِيٌّ وَغَدَدِيٌّ)	الغُدْف: نعمت۔ ارزانی۔ تروتازگی۔ کہا جاتا ہے "هُم فِى غُدْفٍ" وہ لوگ خوش حالی میں ہیں۔	إِغْتَدَّرَ: الرَّجُلُ: چوٹی بنانا۔
الغُدْوَةُ: صبح، فجر اور طلوع آفتاب کا درمیان دن کا ابتدائی حصہ ج غُدَى وَغُدُوٌّ.	الجغدِف والفاذوْف: چچو۔	إِسْتَعْدَرَ: المكان: تالابوں والا ہونا۔
الغُدَاة: صبح، فجر اور طلوع آفتاب کا درمیان۔ دن کا ابتدائی حصہ ج غُدُوَان کہا جاتا ہے "هُوَ اِبْنُ غَدَاتَيْنِ" یعنی وہ دو دن کا ہے۔	السُّغْدَفِل: کامل لہیا۔ بڑے ڈیل ڈول کا اونٹ ج غَدَائِل.	الغُدَّر: مہس۔ پتھر والی جگہ۔ درخت والے پتھر۔ کچھ جوتالاب میں پانی خشک ہونے کے بعد رہ جاتا ہے۔
الغُدِيَّة: بمعنی غُدُوَّة وَغَدَاة ج غَدَايَا وَغُدِيَّات.	غُدِق (س) غَدَقًا وَأَعْدَق وَأَعْدَوْذَق. المَطَر: بکثرت بارش ہونا..... عَيْنُ المَاءِ: کثیر ہونا اور خوشگوار ہونا۔ صفت (غَدِقَةٌ) أَعْدَق العَيْشُ: آسودہ ہونا۔ أَعْدَقَتِ الأَرْضُ: زمین کا سرسبز ہونا۔	الغُدِير: نہر۔ تالاب۔ پانی جس کو سیلاب چھوڑ جائے۔ سبزی کا کٹڑا۔ ج غُدَّر وَغُدَّر وَغُدَّرَان وَأَغْدِر.
الغُدِيَّة: غدا کی تصویر۔	غُدِق (ض) غَدَقًا المَكَّانُ: بارش سے تر ہونا اور سرسبز ہونا۔ صفت (غُدِق)	الغُدِيرَةُ: چوٹی ج غَدَائِر. الغُدِيرَةُ: سبزی کا کٹڑا۔ ج غُدَّرَان.
الغُدَاة: صبح کا کھانا اور اس کے مقابل عشاء ہے ج اَغْدِيَّة.	تَغَدَّنَ: الغُضنُ: ٹہنی کا جھکنا۔	الغَادِر: فاحشیانہ کرنے والا ج غَادِرُونَ وَغَدَرَةٌ وَغُدَّار: مؤنث غَادِرَةٌ ج غَادِرَات وَغَوَادِر.
الغُدَاة: صبح کی بارش۔ ج غَوَادِ وَغَادِيَّات.	إِغْدَوْذَن. النَّبْتُ: سبز ہونا اور زیادتی و شادابی کی وجہ سے سیاہی کی طرف مائل ہونا..... الرَّجُلُ: ڈھیلا ہونا اور گرنا..... الشَّعْرُ: لہیا ہونا اور لپٹا ہوا ہونا صفت (غَدَوْذَن)	الغُدَرَاء: تاریکی۔ لیلۃ (غُدَرَاءُ وَغُدِيرَةٌ وَمُغْدِرَةٌ) تاریک رات۔
الغُدَاة: صبح کا کھانا کھانے والا۔	الغُدْن: نیند۔ اَوْدُو۔ ڈھیلا پن۔ سستی..... والغُدْنَةُ: نرمی۔ نزاکت۔	الغُدَرُ وَالغُدْرَةُ وَالغُدِيرُ وَالغُدَّارُ وَالغُدُّورُ: بہت غدر کرنے والا۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ غُدُوْرٌ وَأَمْرَأَةٌ غُدُوْرٌ." ج غُدَّر اور غُدَّرُ کی گالی میں یا غُدَّرُ: بمعنی یا غَادِرُ: اور جمع میں یا آل غُدَرٍ مستعمل ہے۔
الغُدَاة: صبح کو جانے کی جگہ۔	الغُدَان: شاخ جس پر کپڑے لٹکائے جائیں۔	يَاغْدَارُ: مبنی علی الکسرة: عورت کی گالی میں مستعمل ہے۔
الغُدَاة: خون پیپ وغیرہ جاری ہونا۔	الغُدَانِي: نازک بدن جوان۔	غَدَف (ن) غَدَفًا وَغَدَفٌ: لہ فی العطاء: بہت دینا۔
أَعْدَأَ إِغْدَاذًا. السَّيْرُ وَفِي السَّيْرِ: چلنے میں جلدی کرنا..... السُّجُوحُ: خون پیپ وغیرہ جاری ہونا۔	غَدَا يَغْدُو وَغُدُوًّا: صبح کے وقت جانا۔ جانا اور سار کے معنی میں مستعمل ہے۔ مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے۔	أَغْدَف. اللَّيْلُ: رات کا بہت تاریک ہونا..... الشَّبَكَةُ عَلَي الصَّيْدِ: شکار پر چال ڈالنا..... البَحْرُ: سمندر کا بہت لہروں والا ہونا..... السَّمْرَةُ قَدَأَهَا عَلَي وَجْهِهَا: عورت کا چہرہ پر نقاب ڈالنا۔
الغُدَاة: صبح کا کھانا	غَدِي يَغْدِي غَدًا وَتَغْدِي: صبح کا کھانا کھانا۔ کہا جاتا ہے "هَلْ لَكَ أَنْ تَغْدِي بِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْدِي بِنَا" یعنی کیا تیرے لئے یہ امکان ہے کہ ہم کو ہلاک کرنے سے پہلے	أَغْدَف. بِنَه: زیادہ لے لینا..... التَّوْبُ:
وَعَدِم (س) غَدَمًا وَتَغْدَمُ وَإِغْدَمُ الشَّيْءُ: بہت حرص سے کھانا۔	أَغْدَمُ وَتَغْدَمُ وَالْفَصِيلُ مَا فِي ضَرْعِ أُمِّهِ:	

اونٹنی کے بچے کا پھن سے سب دودھ پی لینا۔
 الغُدْمَةُ: مال کا ایک حصہ۔ ج غُدْمٌ.....
 والغُدْمَةُ: بہت دودھ۔ ج غُدْمٌ.
 بِنْرُ غَدِيْمَةٌ: وسیع کنواں۔
 الغُدْمُ والمُتَغَدِّمُ: بہت زیادہ کھانے والا۔
 غُدْمَرُ غُدْمَرَةٌ: فضیلت کا ہونا۔
 الشَّيْءُ: جدا جدا کرنا۔ بعض کو بعض سے
 ملانا۔ اَنْكَلُ سے بچنا۔
 تَعَدَّمُوْا: فی المجلس: غصہ سے چلانا۔
 الغُدْمَرَةُ: مص۔ شور۔ ڈانٹ۔ گفتگو اور چیخ
 کا مخلوط ہونا۔ ج غُدْمَامِيْرٌ.
 غَدَا يَغْدُوْ غَدْوًا: الرَّجُلُ بِالطَّعَامِ:
 خوراک دینا۔ الطَّعَامُ الصَّبِيُّ: بچہ کو فائدہ
 دینا اور کافی ہونا۔ العَرْفِيُّ: خون بہانا۔
 الرَّجُلُ: جلدی کرنا۔ الفَرَسُ: تیز گزرنا۔
 غَدَى تَغْدِيَةً: الرَّجُلُ: غذا دینا۔ پرورش
 کرنا۔ غَدَى العَرْفِيُّ: خون بہانا۔
 تَغْدَى تَغْدِيًا وَاغْتَدَى اِغْتِدَاءً: خوراک
 کھانا۔
 اِسْتَغْدَى اِسْتِغْدَاءً: الرَّجُلُ: سخت
 پچھاڑنا۔
 العِدَاءُ: خوراک۔ ج اَعْدِيَّةٌ.
 الغَاذِي: قا۔ عَاذِي المَالِ: مال کا منتظم۔
 ج غَدَاةٌ وَاغْدَاوُنٌ: مَوْنَتْ غَاذِيَّةٌ ج غَوَاذٍ.
 الاغْدَى: اسم تفضیل۔
 الغَدِيَّةُ: رحم کا بچہ (بکری کے لئے خاص
 ہے) ج غَدَاءٌ: جانوروں کے چھوٹے
 چھوٹے بچے۔
 الغَدِيُوْىُ: زرم کا بچہ۔
 الغَدْوَانُ: بد زبان۔ تیز رفتار گھوڑا۔
 غَرَّةٌ (ن) غَرًّا وَاغْرَةً وَاغْرُوْرًا: دھوکا
 دینا۔ بے ہودہ امید دلانا۔ کہا جاتا ہے
 "مَاعَرَكٌ بِقَلَانٍ" یعنی تو نے اس پر دلیری
 کی کیونکہ؟ غَرُّ المَاءِ: پانی گرانہ۔
 غَرًّا وَاغْرًا: الطَّالِبُ فَرَحُهُ: پرندہ کا اپنے
 بچہ کو چھوگا دینا۔ الرَّجُلُ: غرغر پرندہ کھانا
 الرَّاعِي: اونٹ کو چرانا۔ المَاءُ: پانی

کانایاب ہونا۔
 غَرٌّ (ن) غَرًّا وَاغْرًا وَاغْرُوْرًا (س)
 غَرَاةٌ: شریف ہونا۔ نا تجربہ کار ہونا۔
 غَرٌّ (س) غَرًّا وَاغْرَاةٌ: تجربہ کے باوجود
 بچوں جیسا کام کرنا۔
 غَرٌّ (س) غَرًّا وَاغْرَةً وَاغْرَاةٌ المَوْجَهُ:
 خوبصورت سفید رنگ والا ہونا۔ الشَّيْءُ: سفید
 ہونا۔
 غَرَّرَ تَغْرِيرًا وَاغْرَةً: بالشَّيْءِ: ہلاکت کے
 لئے پیش کرنا۔ الطَّالِبُ: پرندہ کا اڑنے کے
 لئے پہ پھیلانا۔ القَبْرِيَّةُ: مشک بھرنا۔
 غَرَّرَتْ تَيْبَةَ الغَلَامِ: بچہ کا لگے دانت لگنا۔
 غَارَتْ غِرَارًا وَاغْرًا: السُّوقُ: بازار کا
 ماند پڑ جانا۔ غَارَ النَّحِيَّةُ: کم کرنا۔ غَارَتْ
 النَّاقَةُ: اونٹنی کا دودھ کم ہونا۔
 تَغْرَرُوْا: الفَرَسُ: گھوڑے کا پیشانی سفید
 ہونا۔
 اِغْتَرَّ وَاِسْتَفَرَّ: بگڈا: دھوکا کھانا۔
 اِغْتَرَّةٌ وَاِسْتَفْرَةٌ: بے خبری میں آنا۔
 وَاغْتَرَّةٌ: بے خبری کا طالب ہونا۔
 الغَرُّ: مص۔ زمین میں شکاف۔ کپڑے یا
 کھال کی شکن۔ کہا جاتا ہے "طوبت الثوب
 علی غره" یعنی میں نے کپڑے کو اس کی
 پہلی تہ پر لپیٹا۔ چھوٹی ندی ج غُرُوْرٌ.
 الغَرُّ وَاَلغَرُّ: تلوار کی دھار۔ الغَرُّ: نیند
 وغیرہ کی کمی۔ کساد بازاری۔ اونٹنی کے دودھ
 کی کمی ج اَغْرَةٌ: کہا جاتا ہے "اَتَمْنَا عَلٰی
 غِرَارٍ" یعنی وہ ہمارے پاس جلدی آیا۔
 اَلغِرَارُ: تیر بنانے کا نمونہ اور اسی سے ہے
 "هَلْمُ عَلٰی غِرَارٍ وَاَجِدُ" یعنی وہ ایک جیسے
 ہیں۔ کہا جاتا ہے "وَلِدَتْ ثَلَاثَةَ بَنِيْنَ عَلٰی
 غِرَارٍ" یعنی اس نے تین بچے پے در پے جنے
 جن کے درمیان کوئی لڑکی نہیں۔
 لَبِثَ السَّقُوْمُ غِرَارًا شَهْرًا: قوم ایک مہینہ کی
 مدت ٹھہری رہی۔
 الغِرَاةُ: غفلت۔ نو عمری۔ کہا جاتا ہے "کمان
 ذلک علی غرارتی" یعنی یہ میری نو عمری

کے زمانہ میں تھا۔
 اَلغُدَّةُ: ایک آبی پرندہ جو گہرے جوہر میں
 زندگی گزارتا ہے۔
 الغُرَّةُ: گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی۔
 مِنْ كَسَلٍ شَيْءٍ: ہر چیز کا ابتدائی اور معظم
 حصہ۔ مِنْ السَّقُوْمِ: شریف۔ مِنْ
 الرَّجُلِ: چہرہ۔ روشنی یا صبح ظاہر ہو تو کہا جاتا
 ہے قَدْ بَدَتْ غُرَّتُهُ غَلَامًا۔ باندی۔ ج
 غُرٌّ: الغُرُّ مہینہ کی ابتدائی تین راتیں یعنی
 پہلی دوسری تیسری رات۔ عرب مہینے کی
 تقسیم تین تین راتوں سے کرتے تھے کہ پہلی
 تین راتوں کو غُرٌّ: دوسری تین راتوں کو قَسَلٌ
 اور اس کے بعد تِسْعٌ: پھر عَشْرٌ: پھر بِيضٌ:
 پھر فُرُوْعٌ: پھر ظَلَمٌ: پھر حَنَادِسٌ: پھر وَاْدِيٌّ:
 پھر حَقَاقٌ کہتے ہیں۔
 الغُرُّ: نا تجربہ کار جوان۔ مَوْنَتْ غُرَّةٌ وَاغْرَةٌ
 ج اِغْرَارٌ.
 الغُرِيُّ: اپنے قبیلہ میں سردار عورت۔
 الغِرَّةُ: مص۔ غفلت۔ نا تجربہ کاروں کی جماعت۔
 ج غُرٌّ.
 الغُرَّةُ: مہینے کا پہلا دن۔ ایک کالے رنگ کا
 آبی پرندہ۔
 الغُرُّ: ہلاکت کے درپے۔ کہا جاتا ہے "اَنَا
 غُرٌّ مِّنْكَ" میں تم سے دھوکے میں ہوں۔
 الغُرُّوْرٌ: دھوکا دینا اور یہ دنیا کی صفت میں
 بھی آتا ہے۔ کہا جاتا ہے "السُّدْنِيَا الغُرُّوْرُ"
 غرغرہ کی دوامیں۔
 الغُرُّوْرُ: مص۔ بے ہودہ باتیں۔
 الغَارُ: قا۔ غافل۔ کواں کھودنے والا۔
 مَوْنَتْ غَارَةٌ.
 الغَرَارُ: بہت دھوکہ دینے والا۔
 الغَرِيْرُ: اچھی عادت اور اسی سے مثل ہے
 "اَذْ بَسْرُ غَرِيْرُوْرٍ وَاَقْبَلُ هَرِيْرُوْرَةٍ" یعنی اس کی
 اچھی عادت جاتی رہی اور بری عادت آ
 گئی۔ اچھی زندگی۔ ج غُرَّانٌ: ضامن۔ دھوکا
 زدہ۔ نا تجربہ کار جوان۔ ج اَغْرِيْرَةٌ وَاغْرَاءٌ
 مَوْنَتْ غَرِيْرَةٌ مِّنْ غَرِيْرَاتٍ وَاغْرَابُوْرٍ.

الغُرْبُ: کتے اور بلی کے درمیان چھوٹی
 ٹانگوں کا بھورے رنگ کا ایک جانور اور
 عرب کے امثال میں ہے "أَسْمَنُ مِّنْ
 غُرْبٍ" اور اس کا نام سفید اور غُرْغُور بھی
 ہے۔
 الاغْرُ: خوبصورت۔ ہر چیز کا سفید۔ فیاض۔
 سردار شریف..... مِّنَ الْإِيَامِ: سخت گرم دن۔
 مِّنَ التَّحِيلِ: پیشانی پر سفیدی والا۔ مَوْنَتْ
 غُرَاءُ ج غُرُو غُرَانُ.
 الغَوَاةُ: بورا۔ تھیلا۔ ج غَرَازِو.
 السُّغْرَانُ: پانی کے بلبلے۔ کہا جاتا ہے "أَقْبَلُ
 الْمَاءِ بِغُرَابِهِ" پانی بلبلے کے ساتھ آیا۔
 الْمَغَارُ: کم دودھ والی اونٹنی۔ ج مَغَارُ کہا
 جاتا ہے "فَلَانٌ مَّغَارٌ الْكَفِّ" یعنی بخیل
 ہے۔
 الْمَغُورُ: مفع۔ فریب خوردہ۔
 غُرْبٌ (ن) غُرْبًا: جانا..... فَلَانٌ عَنَّا: جدا
 ہونا۔ علیحدہ ہونا..... فِئِي سَفْرِهِ: طویل سفر
 کرانا..... غُرُوبًا: الرجُل: دور ہونا.....
 النِّجْمُ: ستارہ کا نائب ہونا۔ ڈوبنا۔
 غُرْبٌ (ن) غُرْبَةٌ وَغُرْبَانٌ وَغُرَابَةٌ:
 پردیسی ہونا۔ وطن سے علیحدہ ہونا۔
 غُرْبٌ (ک) غُرَابَةٌ: الْكَلَامُ: مخفی ہونا۔
 پوشیدہ ہونا..... الشَّيْءُ: غیر مانوس ہونا۔
 غُرْبٌ (س) غُرْبًا: لو سے چہرہ کالا ہونا۔
 غُرْبٌ: دور ہونا۔ وطن سے علیحدہ ہونا۔ بچھم
 میں پہنچنا..... ہ: دور کرنا۔ علیحدہ کرنا۔
 مسافرت پر برا بھینٹ کرنا۔ جلا وطن کرنا.....
 فِي الْأَرْضِ: دور تک لے جانا۔
 أَعْرَبٌ: مغرب میں جانا۔ شہروں میں دور
 تک جانا۔ اچھی حالت ہونا۔ عجیب چیز لانا۔
 فَصِحَّ هُوَا اُور نوادرات بیان کرنا..... فِئِي
 الصَّخْبِكِ وَنَحْوِهِ: مبالغہ کرنا.....
 الْحَوْضُ: حوض کوہرنا..... الْقُرْمِصُ فِئِي
 جَرِيهِ: گھوڑے کا بہت دوڑنا..... الْقُرْمِصُ:
 گھوڑے کو دوڑانا۔ یہاں تک کہ مر جائے
 ۵: علیحدہ کرنا غُرْبٌ وَأَعْرَبٌ

التَّوْبِيضُ: تکلیف زیادہ ہونا۔ أَعْرَبَ عَلَيْهِ
 وَبِهِ: برا سلوک کرنا۔
 تَعْرَبٌ: وطن سے علیحدہ ہونا۔ بچھم سے آنا۔
 اِعْتَرَبَ: وطن سے علیحدہ ہونا۔ غیر اقارب
 میں شادی کرنا۔
 اِسْتَعْرَبَ: الشَّيْءُ: نادرا پانا یا سمجھنا۔
 الدَّفْعُ: آنسو بہانا۔
 وَأَسْتَعْرَبَ: فِئِي الصَّخْبِكِ: ہنسنے میں
 مبالغہ کرنا۔
 السُّغْرُبُ: مضم۔ بچھم۔ ہر چیز کا اول۔
 دھار۔ نشاط۔ تیزی۔ کہا جاتا ہے "إِنِّي
 أَخَافُ عَلَيْكَ غُرْبَ الشَّبَابِ" یعنی
 جوانی کی تیزی اور نشاط کا مجھے تمہارے اوپر
 خوف ہے۔ بڑا ڈول۔ آکھ کی وہ رگ جو
 ہمیشہ جاری رہے۔ آنسو۔ آنسو بہنے کی جگہ۔
 آکھ کا پھیلا حصہ۔ دوری۔ آکھ کی پھنسی۔
 گوشہ چشم کا ورم۔ تھوک کی کثرت۔ تیز
 دوڑنے والا گھوڑا۔ کہا جاتا ہے "سَهْمٌ
 غُرْبٌ" اضافت سے اور "سَهْمٌ غُرْبٌ"
 وصف سے یعنی وہ تیر جس کا پھینکنے والا معلوم
 نہ ہو۔ ج غُرُوبُ.
 الْغُرْبَةُ: دوری۔
 السُّغْرُبُ: مضم۔ سونا چاندی پیالہ شراب
 پانی جو کونکس اور حوض کے درمیان ڈول
 سے نکلے۔ کہا جاتا ہے "سَهْمٌ غُرْبٌ وَسَهْمٌ
 غُرْبٌ" وہ تیر جس کا پھینکنے والا معلوم نہ ہو۔
 و "بَعِيْبُهُ غُرْبٌ" جبکہ آنسو تھمتا نہ ہو۔
 السُّغْرَابُ: آقا۔ مختلف قسمیں ہیں۔ غراب
 اسود۔ ابقع۔ زاغ۔ ج أَعْرَبٌ وَغُرْبٌ
 غُرْبَانٌ وَأَعْرَبَةٌ ج غُرَابِيْنُ کہا جاتا ہے
 "طَارَ غُرَابُهُ" یعنی بوڑھا ہو گیا اس کے بال
 سفید ہو گئے۔ وَأَرْضٌ لَا يَطِيْرُ غُرَابُهَا: یعنی
 سرسبز ہے۔ السُّغْرَابُ: اولد و برف۔ سرکا
 پھیلا حصہ۔ مِّنْ كَمَلِ شَيْءٍ: ہر چیز کی ابتداء
 اور دھار۔ جیسے غُرَابُ الْفَاسِ اور کوئے کی
 مثال سیاہی اور بعد اور صبح سویرے اٹھنے اور
 چوکنارہنے میں دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے

"بِحُكْرَتْ بِكُوْرَا الْغُرَابِ" کوئے کی مانند
 صبح سویرے اٹھا۔ "فَلَانٌ أَخَذَ مِّنْ
 الْغُرَابِ" فلاں کوئے سے زیادہ چوکنارہ ہے۔
 و "ذُوْنُ هَذَا شَيْبِ الْغُرَابِ" اس سے کم
 کوئے کی سیاہی سے اَعْرَبَةُ الْعَرَبِ: عرب
 کے سیاہ لوگ۔ السُّغْرَابُ: پرانی قسم کی ایک
 کشتی۔
 السُّغْرَابَانُ: دونوں سرین کے نچلے حصے جو
 ران سے ملے ہوئے ہوں۔
 السُّغْرَابُ: قان۔ کندھا۔ پیٹھ اور گردن یا گوبان
 اور گردن کے درمیان کا حصہ۔ ہر چیز کا اعلیٰ
 حصہ۔ ج غُرَابُ: اور اسی سے ہے۔
 غُرَابُ الْمَاءِ: بلند موتیوں۔
 السُّغْرِيْبُ: مسافر۔ وطن سے دور۔ اجنبی۔ ج
 غُرْبَاءُ: عجیب و غیر مانوس مِّنَ الْكَلَامِ: جس
 کا سمجھنا دشوار ہو۔ مَوْنَتْ غُرْبِيَّةٌ ج
 غُرَابِ.
 السُّغْرُبُ: بھنی غریب۔
 السُّغْرُبُ: صبح۔ ہر سفید چیز یا جس کے
 کنارے سفید ہوں۔ غُرْبَاءُ (مُغْرِبُ
 وَمُغْرِبَةٌ) دیکھئے لفظ "عُقْبَاءُ".
 السُّغْرُبُ: بچھم۔ آفتاب غروب ہونے کی
 جگہ۔ ممالک افریقیہ اور بڑبان حال ممالک
 یورپ۔
 مَغْرِبَانُ: الشَّمْسُ: آفتاب کے طلوع و
 غروب کی جگہ۔
 الْمَغْرِبِيُّ: ممالک مغرب کی طرف منسوب۔
 ج مَغْرِبَانَةٌ.
 السُّغْرِيْبُ: سخت سیاہ اور اکثر بطور تاکید
 مستعمل ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے "أَسْوَدُ
 غُرْبِيْبٍ".
 غُرْبَلُ غُرْبَلَةُ الْجَنْطَةِ: گیبوں چھاننا۔
 الْبَلْدُ: ملک کے رہنے والوں کا حال
 کھولنا۔
 فِي الْأَرْضِ: جانا..... الشَّيْءُ: بکڑے
 بکڑے کرنا۔ جدا جدا کرنا..... الْقَوْمُ: قوم کو
 قتل کرنا اور بچل دینا۔

الغُرُزَال: پھلتی۔ دف۔ چغل خورج غُرَابِيل۔ المَغْرُوبِل: مفتح۔ مٹھیا۔ پھولا ہوا۔ مقتول۔ زوال پزیر ملک۔ الغُرُوبِيْل: پھلتی۔ دف۔ چغل خور۔ غُرْت (س) غُرْتَا: بھوکا ہونا۔ صفت (غُرْتَان) ج غُرْتَسِي وَغُرْتَالِي وَغُرَات: مَوْت (غُرْتِي) ج غُرَات۔ غُرْت. الكَلْب: کتے کو بھوکا رکھنا۔ الغُرْت وَالغَارْت: بھوکا۔ غُرْدَة (س) غُرْدَا وَغُرْدَة وَغُرْدَة الطَائِر: پرندہ کا گانے میں آواز بلند کرنا اور گنگری کرنا اَغْرَدَة الطَائِر: گمراہ خوش کرنا۔ اِسْتغْرَدَة: گانے پر برا بھینت کرنا۔ الاعْرُود وَالاعْرُودَة: پرندہ کی سریلی آواز ج اغْرَائِد۔ الغُرْد وَالغُرْد وَالغُرَيْد: گانے والا۔ غُرْدَة (ض) غُرْدَا. بِالابْرَة وَنَحْوَهَا: سوئی وغیرہ چھوٹا۔ غُرْدَة الابْرَة فِي الشَّيْ: داخل کرنا۔ الرَّايِبُ وَرَجُلُهُ فِي الغُرْد: رکاب میں یاؤں ڈالنا۔ غُرْدَا بِالْأَرْضِ: زمین میں گنگری گاڑنا۔ غُرْدَتِ الجُرَادَة: اٹھادیئے کے لئے زمین میں دم چھوٹا۔ صفت (غَارِيْر) وَغَارِيْرَة) غُرْرَ. الابْرَة فِي الشَّيْ: داخل کرنا۔ غُرْدَتِ الجُرَادَة: اٹھادیئے کے لئے زمین میں دم چھوٹا۔ العَنَم: بکری کو موٹی ہونے کے لئے دوھنے سے چھوڑ دینا۔ أَغْرَر. الابْرَة: بمعنی غُرْرَ..... الوَادِي: غرز نامی پودہ اگانا..... فِي الشَّيْ: داخل ہونا۔ اِغْتَرَّر السَّيْر: رواں کی قریب ہونا..... فُلَانٌ السَّيْر: رواں کی قریب ہونا۔ سوار ہونا الرَّايِبُ وَرَجُلُهُ فِي الغُرْد: سوار کا رکاب میں پاؤں رکھنا۔ الغُرْد: مصل۔ رکاب۔ زمین میں گاڑی	ہوئی گنگری۔ ج غُرُوْر: کہا جاتا ہے "الزَّم غُرُوْر فُلَان" یعنی اس کے اُمر و نہی کی اطاعت کرو۔ "اَشْدُّ يَذِيْبُكَ بِغُرُوْرِهِ" مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو۔ الغُرُوْر: ایک چھوٹی قسم کا پودہ۔ الغُرُوْرَة: طبیعت ج غُرُوْرِيْر۔ الغَارِيْر: قا۔ اونٹنی جس کا دودھ کم ہو گیا ہو۔ غِيُوْر (غُوَارِيْر) نہ بننے والے چشمے۔ السَّغْرِيز: کھجور کا پودا جو ایک جگہ سے نقل کر کے دوسری جگہ لگایا جائے۔ ج تَغَارِيْرِيْر۔ المَغْرُوْر: گاڑنے کی جگہ۔ ج مَغَارُوْر۔ غُرْس (س) غُرْسَا وَغُرْسَة الشَّجَر: درخت کا پودہ لگانا۔ اِنْفُرْس: پودہ لگانا۔ السَّغْرَس: مصل۔ پودہ لگایا ہوا ج غُرْس وَأَغْرَس۔ الغُرْس: پودہ۔ پانی جو رحم سے نکلے۔ چھوٹا کوا۔ ج اَغْرَس۔ الغُرَيْس: پودا لگایا ہوا۔ بھیڑ۔ الغُرَيْسَة: کھجور کا پودا جو ابھی اُگا ہوا۔ گھٹلی جو بوٹی جائے۔ انگور کی تیل جو ابھی بٹھائی گئی ہو۔ پودہ بٹھانے سے پھلدار ہونے تک۔ ج غُرَيْس وَغُرَس۔ السَّغْرَس: پودہ۔ پودہ لگانے کا وقت۔ کہا جاتا ہے "هَذَا زَمَنُ الغُرَس" جس طرح کہا جاتا ہے "هَذَا زَمَنُ الحَصَاد"۔ المَغْرَس: پودہ لگانے کی جگہ ج مَغَارَس۔ الغُرُوش. مِنَ المَسْكُوْكَات: ایک مکہ ہے جو دو آنے کے مساوی ہوتا ہے۔ ج غُرُوش۔ غُرُوش (س) غُرُوشًا. إِلَيْهِ: مشتاق ہونا۔ صفت (غُرُوش)..... مِنْهُ: تنگ دل ہونا۔ مُلُوْل ہونا۔ خوف کرنا۔ غُرُوش (ض) غُرُوشًا. الابْرَة: برتن بھرنا۔ کَم بھرنا..... الشَّيْ: تازہ چننا۔ وقت سے جلدی کرنا۔ روکنا۔ توڑنا اس طرح کہ جہانہ ہو جائے (..... غُرِيْبًا) لَهُ: تازہ دودھ	پلانا۔ غُرُوش (ک) غُرُوشًا. اللَحْم: گوشت تازہ ہونا۔ صفت (غُرِيْب) ج اَغْرِيْب۔ غُرُوش: مزاج کرنا۔ تازہ گوشت کھانا۔ الشَّيْ: تازہ چننا..... فِي سِقَابِهِ: منگ میں نہ بھرنا۔ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ بِحُسْرًا لَا يُغْرُوش" یعنی فلاں آدمی سمندر کی مانند ہے جو خالی نہیں کیا جاسکتا۔ غُرُوش فُلَانًا: نشانہ بنانا۔ أَغْرُوش. فُلَانًا: تنگ دل کرنا..... الغُرُوش: نشانہ پر ٹھیک مارنا..... الابْرَة: برتن بھرنا۔ غَارُوش. الإِبِل: اونٹوں کو ترکے گھاٹ پر لے جانا۔ تَغْرُوش وَانْفُرُوش. العُصْن: شاخ کا مڑنا اور ٹوٹنا مگر جدا نہ ہونا۔ اِغْتَرُوش. الشَّيْ: کسی چیز کو اپنی غرض بنانا۔ اِغْتَرُوش فُلَانًا: جوان مرنا۔ الغَارُوش: قا۔ ترکے پانی پر جانے والا۔ لمبی ناک۔ کہا جاتا ہے "اَتَيْتُهُ غَارُوشًا" یعنی دن کے ابتداء میں۔ السَّغْرُوش: مصل۔ وادی کی ناقص شاخ ج غُرُوشَان وَغُرُوشَان وَغُرُوش.....: کجاوہ کا تنگ ج اَغْرُوش وَغُرُوش۔ الغُرُوشَة: کجاوہ کا تنگ ج غُرُوش وَغُرُوش۔ الغُرُوش: مصل۔ مطلوب۔ حاجت۔ قصہ۔ کہا جاتا ہے "فَهَمْتُ غُرُوشَكَ" میں نے تیرے قصہ کو سمجھ لیا نشانہ جس پر گولی ماری جائے۔ ج اَغْرُوش۔ الغُرُوشِيْر: طرب انگیز گیت۔ بہترین گویا۔ ہر سفید تازہ بارش کا پانی۔ پانی جس پر ترکے آیا جائے۔ تازہ گوشت۔ الإَغْرِيْبِيْر: شگوف۔ ہر سفید تازہ۔ ج أَغْرِيْبِيْر۔ المَغْرُوش: اونٹ کا تنگ۔ ج مَغَارُوش۔ المَغْرُوشِيْر: مفتح بارش کا پانی۔ الغُرُوشُوف: نرم ہڈی جیسے کان ناک کی ج غُرُوشِيْف. الغُرُوشُوفَان: دو گنگریاں جو کجاوہ
---	---	--

کے دامیں یا میں باندھی جاتی ہیں۔

غَرْغَرٌ غَرْغَرَةً: غرغره کرنا۔ غرغرت
الْقِلْبُ: ہانڈی کا جوش کے وقت آواز دینا۔
غَرْغَرُهُ: ذبح کرنا۔ غرغره بالرمح: حلق
میں نیزہ مارنا۔ السَّرْجُلُ: آواز گلوگیر
نکالنا۔ موت کے وقت خرخر کرنا۔ السَّلْحَمُ:
گوشت میں بھوننے وقت آواز ہونا۔

تَغَرَّرَ غَرًّا: بالماءِ او الذَّوَابِ: پانی یا دوا سے
غرغره کرنا اور اسی سے ہے "تَغَرَّرَ غَرَّتْ
الْعَيْنُ بِالسَّلْمِ" آکھ آنسوؤں سے ڈبڈبا
گئی۔

الغَرْغَرُ: ایک قسم کی مرغی جس کو چینی مرغی
کہتے ہیں۔ واحد (غَرْغَرَةٌ)
الغَرْغَرُ: بمعنی الغُرْبُ (دیکھیے الغُرْبُ)
الغَرْغَرَةُ: پونا۔ پیشانی کی سفیدی۔ کہا جاتا
ہے "فَلَانٌ غَرْغَرَةٌ" یعنی فلاں شریف ہے۔
غَرَفَ (ض) غَرْفًا: الشَّيْءُ: کاٹنا نصیبتاً:
پیشانی کے بال کترنا۔

وَأَغْرَفَ: الماءِ بَيَدِهِ: پانی کا چلو لینا۔
تَغْرَفُهُ: کسی چیز کے ساتھ جھٹی چیزیں ہوں
سب لے لینا۔
إِنْغَرَفَ: الشَّيْءُ: کتنا۔ مرنا اور ٹوٹنا۔
العَظْمُ: ہڈی کا ٹوٹنا۔ فُلَانٌ: مرنا۔
الغَرْفُ: مِسٌّ (.....) والغَرْفُ: پودہ جس
سے چمڑے کو باغٹ دیا جائے۔

الغَرْفَةُ: چلو لینے کی ہیئت۔ جوتی۔ ج
غَرْفٌ: جوتی۔ ج غَرْفَاتٌ: کوٹھری کے
اندر کوٹھری یا لاخانہ بالون کا گچھا۔ ج
غَرْفٌ وغَرْفَاتٌ وغَرْفَاتٌ وغَرْفَاتٌ:
القَارِيفَةُ مَوْتٌ غَارِيفٌ: اسم فاعل..... ج
السُّوقِ: تیز دوڑنے والی اونٹنی۔ ج
غَوَارِفٌ:

الغَرَّافُ: ایک قسم کا بڑا بیابانہ۔
الغَرَّافُ: بہت چلو لینے والا۔ نَهَرٌ غَرَّافٌ:
بہت پانی کی نہر۔ عَيْتٌ غَرَّافٌ: بہت
بارش۔

الغَرْوْفُ: مِنَ الْإِبَارِ: وہ کنوئیں جن سے
پانی چلو سے لیا جائے۔

الغَرْيْفُ: مِنَ الشَّجَرِ: گھنادرخت۔ بالنس
زکل وغیرہ کی جھاڑی۔
الغَرْيْفَةُ: گھنادرخت۔ جوتی۔ تلوار کے
تلے کے نچلے حصہ کا چمڑا۔

السَّغْرَفُ: تیز رفتار گھوڑا اور "فَسَارِسٌ
يَغْرِفُ" بھی کہا جاتا ہے ج مغارِف.
المِغْرَفَةُ: چمچہ۔ ڈوئی۔ ج مغارِف.

غَرِقَ (س) غَرْقًا: فِي الْمَاءِ: ڈوبنا۔
صفت (غَرِقٌ وَغَارِقٌ وَغَرِيقٌ) ج غَرْقِي
غَرِقَ فُلَانٌ: دودھ وغیرہ کا گھونٹ لینا۔
مستغنی ہونا۔

غَرِقَ (ن) غَرْقًا: مِنَ اللَّبَنِ: دودھ وغیرہ
کا گھونٹ لینا۔
أَغْرَقَ: فِي الْأَمْرِ: مبالغہ کرنا۔

أَغْرَقَهُ وَغَرَّقَهُ: ڈوبوینا۔ أَغْرَقَ فِي
الْقَسْوَسِ: کمان کو بہت زیادہ کھینچنا۔ أَغْرَقَ
وَأَغْرَقَ اللِّجَامَ بِالْفِضَّةِ: لگام کو چاندی سے
مزین کرنا۔ کہا جاتا ہے "أَغْرَقَ أَعْمَالَهُ
بِالْمَعَاصِي" یعنی اپنے اعمال صالحہ کو معاصی
کی وجہ سے ضائع کر دیا۔

غَارَقَهُ: قَرِيبٌ هَوْنًا: کہا جاتا ہے "غَارَقْتَنِي
لَيْبِيَّةٌ" یعنی موت مجھ سے قریب ہوئی۔
إِغْتَرَقَ: النَّفْسُ: بہت ہانپنا۔
لَتَبْغِيْرُ التَّنْصِيْبِ: اونٹ کے پیٹ کے موٹے
ہو جانے کی وجہ سے تنگ کا تنگ ہو جانا۔

الْفَرَسُ السَّخِيْلُ: گھوڑوں کی جماعت میں
واضل ہونا اور آگے بڑھ جانا۔ کہا جاتا ہے
"فُلَانٌ يَسْفَتِرُقُ الْعَيْنَ" یعنی فلاں اپنی
خوبصورتی کی وجہ سے نظر کو اپنی طرف کھینچتا
ہے دوسری طرف نہیں ڈالنے دیتا۔

إِسْتَغْرَقَ: الشَّيْءُ: بکل لے لینا۔ الغَايَةُ:
مقررہ حد سے آگے بڑھ جانا۔ فِي النَّوْمِ:
گہری نیند ہونا۔ فِي الضَّحْكَ: بھلکھلا
کر ہنسا۔

إِغْرُوْرَقْتُ: الْعَيْنُ: ڈبڈبا آنا۔

الغَرْفَةُ: دودھ وغیرہ ایک مرتبہ پینے کی
مقدار ج غَرْقُ.

غَرْقَاتٌ: الذَّحَاجَةُ بِنَصْتِهَا: مرغی کا کچا
انڈا دینا۔ البَيْضَةُ: کچا انڈا گرنا۔
الغَرْقِيُّ: انڈے کے سفیدی کی جھلی۔ انڈے
کی سفیدی۔

غَرِلٌ (س) غَرْلًا: الصَّبِيُّ: بچے کا غیر
مختون ہونا۔ صفت (أَغْرَلٌ) مَوْتٌ غَرْلَاءٌ
ج غَرْلٌ.

الغَرِلُ: ڈھیلا ڈھالا آدمی۔ بہت ہی زیادہ
لسانیزہ۔

الأَغْرَالُ: ارزانی کا سال۔ خوش عیش
زندگی۔

السُّرْلَةُ: چمڑا جس کو تختے کے وقت کاٹتے
ہیں۔

غَرِمَ (س) غَرْمًا وَغَرَامَةً وَمَغْرَمًا الذَّيْنُ
وَنَحْوَهُ: قرض وغیرہ ادا کرنا۔

فِي التَّجَارَةِ: تجارت میں نقصان اٹھانا۔
أَغْرَمَهُ وَغَرَمَهُ الذَّيْنُ: قرض کی ادائیگی کو
لازم کرنا۔ کہا جاتا ہے "غَرِمَ السَّخَابُ"
یعنی بارش ہوئی۔

أَغْرِمَ: بِالشَّيْءِ: بہت خواہش مند ہونا۔
تَغْرِمَ: تاوان برداشت کرنا۔

إِغْرَمَ: تاوان کو اپنے اوپر لازم کرنا۔
الغَرَامَةُ وَالغَرْمُ: تاوان۔ مال جس کا ادا
کرنا ضروری ہو۔ ضرر۔ مشقت۔

السُّغْرَامُ: اشتیاق۔ محبت جو دل کو جھلائے
عذاب کرنے والا ہو۔ ہلاکت۔ عذاب۔

الغَرْيْمُ: قرض خواہ۔ قرض دار۔ مخالف۔ ج
غَرْمَاءٌ وَغَرْمًا.

الغَرَامَاتِيْقِيُّ أَوْ أَنْفَرَامَاتِيْقِيُّ: وہ علم جو بولنے
اور لکھنے میں غلطی سے بچائے یعنی علم صرف علم
تعمیر اور علم عروض۔ اس لفظ کا اطلاق اس کتاب پر
بھی ہوتا ہے جس میں علم پایا جائے۔

الْمَغْرَمُ: تاوان۔ ج مغارِم.
غَرِنَ (س) غَرْنًا: الْعَجِيْنُ: گندھے ہوئے
آٹے کا خشک ہونا۔

الغزین: کمزور۔

الغزین والغزین: تریا خشک مٹی جو سیلاب میں بہہ کر آئے اور زمین پر رہ جائے۔ بے وقوفی۔

الغزینق والغزینق والغزینوق والغزینق: ایک قسم کا آبی پرندہ جو سارس کے مشابہ ہوتا ہے سفید خوبصورت جوان کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے "فساب غزینق وصیبة غزینق وغزینقة" ج غزینق وغزینق وغزینقة۔

غزینقرو غزوا: الرجل: تعجب کرنا..... الجملد: سریش سے جوڑنا..... الشحم قلبہ: چربی کا دل پر چھایا جانا۔

الغزینقی: ایک افریقی پھول کا نام۔ غزوی یغزوی غزاء وغزاء وغزوی وغزوی وأغزوی، بگڈا: بہت خواہش مند ہونا۔ بہت رغبت رکھنا۔ غزوی الغدین: تالاب کا پانی ٹھنڈا ہونا..... فلان: بہت زیادہ غضبناک ہونا (..... غزاة بہ چمٹنا۔ لازم ہونا۔

غزوی تغزویة: الشی: سریش سے جوڑنا۔ أغزوی: الرجل بگڈا: برا بیچنے کرنا۔ أغزوی السداوة بینہم: دشمنی ڈالنا اور فساد پیدا کرنا۔

غازی غزاء ومغزاة: فلانا بخت جھگڑا کرنا..... بنین الشیبین: ایک کے بعد دوسرے کا لگا تار کرنا۔

الغزاء والغزاء: ہر وہ چیز جس کا طلا کیا جائے جس سے ورق یا کھال کو جوڑیں جیسے سریش یا لکی۔ الغزاء: خوبصورتی۔

الغزاء والغزوی: خواہش مند۔ کہا جاتا ہے "لا غزوا ولا غزوی من کڈا" یعنی اس سے تعجب نہیں۔

الغزوی: خوبصورت۔ عمدہ عمارت۔ المغزاة: سریش بچھانے کا آلہ۔

غز (ن) غزوا وغز: بقلان: خاص کرنا..... الاہل او الصبی: اونٹ یا بچہ پر نظر بد

سے حفاظت کے لئے رکھی ہوئی اون لٹکانا۔

غزاة مغزاة: سیت کرنا۔ جھگڑنا۔

أغزوا الشجر: درخت میں بہت اور سخت کانٹے ہونا۔ أغزبت البقرة: گائے پر وضع حمل کا دشوار ہونا۔

تغزوا القوم الشی: آپس میں جھگڑا کرنا۔ الفز: جزا۔ ترکوں کی ایک قوم۔ واحد (غزوی)

غزوا (ک) غزوا وغزاة وغزوا: الماء وغیرہ: پانی وغیرہ کا کثیر ہونا۔ غزوت الناقة: اونٹنی کا بہت دودھ والی ہونا۔

تغزرت الرجل: زیادہ گوشت والا اور موٹا ہونا۔

غازرو استغزرو: زیادہ لینے کے لئے تھوڑا دینا۔ الغزور: مص۔ کھجور کے پتوں کی بکری۔

..... والغزاة: کثرت۔ الغزاز: باریک کانوں کا بوراجس سے تحریر کے لئے قلمیں بنائی جاتی ہیں۔

الغزوی: ہر چیز کا بہت۔ ج غزار۔

الغزویرة: مونس غزیر..... من النوق: بہت دودھ والی اونٹنی..... من العیون: بہت آنسوؤں والی آنکھ..... من الابار والیتابیع

: بہت پانی والے کنوئیں اور چشمے ج غزار۔ المغزار: من الابل: بہت دودھ والی اونٹنی۔ مسکان (مغزوز) کثیر بارش سے سیراب شدہ۔

غزل (ض) غزلا وغزول: الصوف: اون کا تانا۔

غزل (س) غزلا بالنساء: عورتوں سے باتیں کرنا۔ عشق بازی کرنا۔ عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کرنا۔

غزال: المرأة: عورت سے بات کرنا اور پھسلانا۔ کہا جاتا ہے "غزال فلان الاربعین من العسمر" یعنی فلاں چالیس سال کے قریب ہو گیا "هو یغزال زعلہ من

العیب" یعنی وہ نہایت آسودگی کی زندگی بسر کرتا ہے۔

أغزلت الظینة: ہرنی کانچے والی ہونا..... المرأة: عورت کا تکلہ گھمانا۔ تغزل: فلان: بکلفت عشق بازی کرنا۔

تغزل القوم: بعض کا بعض سے عشق بازی کرنا۔ الغزل: مص۔ کا تانا ہوا۔

الغزل: مص۔ عورتوں کے ساتھ کھیل کود۔ الغزال: ہرن کا بچہ۔ ج غزلة وغزلان: دم الغزال: نام ایک نباتات کا۔

الغزاة: غزال کا مونس۔ چڑھتے وقت کا سورج غزاة الضحی وغزاة اللآلة: چاشت کی ابتداء۔

الغزل: عورتوں سے بات کرنے والا۔ عشق بازی کرنے والا وہ شخص جو ہر چیز میں کمزور ہو۔

الغزاة: کا تانے والی۔ ج غزل وغزائل۔ الغزیل: عورتوں سے باتیں کرنے والا۔ الغزال: بہت کا تانے والا۔

الاعزل: غزل: کا اسم تفضیل۔ من الحمی: بار بار آنے والا بخار۔

المغزل والمغزل والمغزل: تکلہ ج مغزل۔

غزاة یغزوة غزوا: طلب کرنا۔ تصد کرنا۔ کہا جاتا ہے "غزفت ما یغزوی من ہذا الکلام" یعنی اس کلام کے مقصود کو میں نے جان لیا۔

غزوا وغزاة وغزوانا: القوم: کسی قوم سے جنگ کے لئے چلنا۔ جہاد کے لئے نکلنا۔

غزوی وأغزوی: فلانا: جہاد کے لئے بھیجا جانا۔ سامان دینا برا بیچنے کرنا..... ہ: مہلت دینا۔ مطالبہ کو موخر کر دینا۔

إغزوی اغزاة: فلانا: تصد کرنا..... بہ: مخصوص کرنا۔

الغزوة: غزا کا اسم مرہ۔ ج غزوات۔

<p>رات کا تاریک ہونا۔ صفت (غایم) الغم: سیاہی۔ تاریکی۔ خاکستری۔ الغم والاعظام: آسمان میں بادل کے ٹکڑے۔ غسن (ن) غسنا۔ الشی: چپانا۔ غسان القلب وغسانہ: دل کے انتہائی گوشے۔ کہا جاتا ہے "غسلت ان ذلک من غسان قلبک" میں نے جان لیا کہ یہ تمہارے دل کی گہرائی سے ہے۔ الغسان والغسان: جوانی کی تیزی اور کہا جاتا ہے "ما انت من غسانہ" تم اس کے مردوں میں سے نہیں ہو۔ الغسانی: بہت خوبصورت۔ الفسنة والغسنة: بالوں کا چھما۔ غسن: غسنت وغسنتات۔ الاغسان: لوگوں کے اخلاق و عادات۔ پرانے کپڑے۔ الغسانیة: نرم و نازک عورت۔ غسا يغسو غسوا وغسی يغسی غسی واغسی۔ اللیل: رات کا تاریک ہونا۔ اغسنا اللیل: تاریکی ڈالنا۔ الفساة: کبھی بھجوریں۔ وغسی: شیخ (غاس) بھرقالی۔ غشہ (ن) غشا وغششہ: خلاف ضمیر ظاہر کرنا اور خلاف مصلحت کو مزین کرنا۔ دھوکا دینا۔ اغشہ: دھوکے میں ڈالنا اغشہ عن حاجتہ جلدی کرنا اور حاجت سے باز رکھنا۔ اغشش واستغشش۔ الرجل: خیانت کا گمان کرنا۔ خائن سمجھنا۔ الغش: دھوکا۔ فریب۔ کینہ۔ خیانت۔ دل کی سیاہی۔ ترش روئی۔ ہر چیز کی کدورت۔ الغش: دھوکا باز۔ ج غشون۔ الغاش: دھوکا باز ج غششہ وغشاش۔ الغشش: گدلا پانی۔ الغشاش والغشاش: تاریکی کا اول و آخر۔ قوم (غشاشہ) دھوکا باز لوگ۔</p>	<p>الغایق: قا۔ چاند۔ رات جبکہ تاریکی بڑھ جائے۔ گیہوں کی ایک قسم۔ الفساق والغشاق: ٹھنڈا۔ بدبودار۔ غسل (ض) غسلاً وغسلاً۔ الشی: پانی سے میل پیکل دور کرنا..... ہ: تکلیف دہ طریقہ سے مارنا۔ جماع کرنا۔ غسل۔ الشی: دھونے میں مبالغہ کرنا۔ بہت جماع کرنا۔ اغتسل: دھونا..... الشی: بہنا۔ اغتسل: نہانا..... بالطیب: خوشبو لگانا..... الفرس: گھوڑے کو پینڈا نا۔ الغسل والغسل: اسم ہے غسل سے۔ الغسل والغسل: ہاتھ منہ دھونے کی چیز جیسے صابن وغیرہ ج اغسال۔ الغسل والغسل والغسل: ہاتھ منہ دھونے کی چیز۔ الغسل: من الشی: پانی جس سے دھویا جائے دھونے سے جو پانی گرنے کیڑا جو دھویا جائے۔ الغسیل: نہلایا ہوا۔ ج غسلی وغسلہ: مؤنث غسیلة ج غسالی۔ الغسائل: صابون۔ اور ہر وہ چیز جس سے عموماً دھویا جائے۔ ایک پودہ کا نام ہے جس سے دھوتے ہیں۔ الغسال: اسم مبالغہ۔ مؤنث غسالہ۔ المغسل والمغسل: غسل خانہ۔ ج مغاسیل۔ المغسل: غسل خانہ ج مفضلات۔ المغسل: وہ پانی جس سے نہایا جائے۔ المغسل: وہ چیز جس سے دھویا جائے۔ المغسيلة: موذن جس میں کپڑے دھوئے جائیں۔ الغتیلین: دوزخیوں کے جسموں سے نکلنے والی پتیا۔ غسلب۔ الشی من فلان: کسی سے کسی چیز کو چھین لینا۔ غسم (ن) غسما وغمم۔ اللیل:</p>	<p>الغاری: قا۔ ج غزاة وغزوی وغزوی وغزاء: مؤنث غازیة ج غوازی وغازیات۔ الغزاة: اسم ہے غزو: کاج غزوات۔ الغزوة: جس کا قصد کیا جائے۔ جس کو طلب کیا جائے۔ المغزی: جنگ کرنا۔ جنگ کرنے کی جگہ۔ مغزی الکلام: مقصد کلام۔ ج مغزای۔ المغزای: غازیوں کے مناقب۔ غازیوں کے انفعال۔ امرأة (مغزیة) عورت جس کا شوہر جہاد میں ہو۔ اتان او ناقة مغزیة: دیر سے جننے والی گدھی یا اونٹنی۔ غس (ن) غسا۔ فی البلاد: داخل ہونا الکلام: کلام میں عیب لگانا..... ہ فی الماء: پانی میں غوطہ دینا..... السهرة: بی کو ڈالنا اور غس کہنا۔ اغس۔ فی الماء: پانی میں ڈوبنا۔ الغس: کمزور تالاق۔ غسر (ن) غسرا۔ علی الغریم: قرض دار پر سختی کرنا۔ تغسر الغزل: کتے ہوئے سوت کا لپٹ جانا۔ الجھا ہوا ہونا..... الاغمر: ملتھس ہونا۔ تخلط ہونا۔ صفت (غیس) الغسر: جس چیز کو ہوا اثر کرتا لاپ میں ڈال دے۔ اغسف: تاریکی میں داخل ہونا۔ الغسف: تاریکی۔ غسق (ض) غسقا وغسقا وغسقانا واغسق۔ اللیل: رات کا تاریک ہونا۔ اغسق الرجل: تاریکی میں داخل ہونا..... المؤذن: موذن کا دیر میں مغرب کی اذان کہنا۔ غسق (ض) غسقا وغسوقا وغسق (س) غسقانا۔ الماء: پانی گرتا..... الغیم: بارش ہونا..... السین: آنکھ کا ڈبڈبانا اور تاریک ہونا۔ الغسق: اول شب کی تاریکی۔</p>
---	---	---

المَغشُوشُ: مفع - غیر خالص - کہا جاتا ہے "لَبِنٌ مَغشُوشٌ" غیر خالص پانی ملا ہوا دودھ - غَشَمَةُ (نض) غَشْمًا تَغَشَّمَةٌ: ظلم کرنا - غَشِمَ (ض) غَشْمًا الحاطِبُ: لکڑی چننے والے کا رات کو لکڑی چننا اور بغیر سوچے بو جھے جو ہاتھ لگے اس کو کاٹنا - الغاشم والغشوم والغشام: ظالم - غاصب - المَغشَم: خود رائے لیر کہ جو چاہئے کرے - ظالم - الغَشْمُومُ: بمعنی مَغشَم: بہت ظلم کرنے والا - الغَشْمُومَةُ والغَشْمُومِيَّةُ: دلیری - جرات - غَشْمَرٌ غَشْمَرَةٌ: السَّنْبُلُ: سیلاب کا آنا الرَّجُلُ: حق یا باطل میں خورد رانی کرنا اور کوئی پروا نہ کرنا الأَمْرُ: بے سوچے کچھ کام کرنا فَلَانًا: ظلم کرنا - تَغَشَّمَرٌ عَلَيْهِ: غضبناک ہونا - فَلَانًا: زبردستی لے لینا اور ظلم کرنا - تَغَشَّمَرُ السَّيْلُ او العَجَشُ: سیلاب یا لشکر کا آنا - الغَشْمَرَةُ: مہم - آواز - ج غشامیر - الغَشْمَرِيَّةُ: ظلم - العِشِيرُ: جنتی - زبردستی - کہا جاتا ہے "أَخَذَهُ بالعِشِيرِ" یعنی اس کو جنتی سے لیا - غَشَا يَغشُو غَشْوًا. فَلَانًا: کسی کے پاس آنا - غَشِي (س) غَشَاوَةً. الأَمْرُ فَلَانًا: جتلا کردیا - غَشَا: القُرْسُ وغیره - سفید سر والا ہونا - غَشِي (س) غَشِيَانًا. فَلَانًا: کسی کے پاس آنا هُ بِالسُّوْطِ: کوڑے سے مارتا - اسْتَعَشَى. قُوْبُهُ وَبِقُوْبِهِ: ڈھانپ لینا تاکہ زندگیاں دے نہ سائی دے - الغَشْوَةُ والغَشَاوَةُ: دلوں میں مین کی مثلیت ہے - پردہ - الغَشْوَةُ: غشا کا اسم	مره - الأغشى. مِنَ الخَبِيلِ وَغَيْرِهَا: سارے جسم کے خلاف سفید سر والا گھوڑا - مَوْنَثُ غَشْوَاءُ. غَشِي يَغشِي غَشِيًا وَغَشَايَةَ الأَمْرِ وَفَلَانًا: نازل ہونا - ڈھا کتنا - غَشِي المَرْأَةُ : جماع کرنا المَكَانُ: آنا اللَّيْلُ: رات کا تاریک ہونا - غَشِي عَلَيْهِ غَشِيًا وَغَشِيًا وَغَشِيَانًا: بے ہوشی طاری ہونا - مفعول مفعول مَغشِي عَلَيْهِ. أغشى. الأَمْرُ فَلَانًا: نازل کرنا - ڈھکوانا اللَّيْلُ: رات کا تاریک ہونا اللہ عَلَى بَصْرِهِ: نگاہ پر پردہ ڈال دینا - أَعْشَانِي فَلَانًا: فلاں کے پاس آنے کے لئے برا بیخت کرنا - غَشِي. الشئ وَعَلَى الشئ: ڈھا کتنا - غَشِيَهُ الأَمْرُ: میں نے اس کو کام سے ڈھا تک دیا - تغشى. بِقُوْبِهِ: اپنے آپ کو ڈھا کتنا - تغشى المرأة: جماع کرنا - تغشاه الأَمْرُ: کام نے اس کو ڈھا تک لیا - اسْتَعَشَى. قُوْبُهُ وَبِقُوْبِهِ: اپنے آپ کو ڈھا تک لینا - العشاء: پردہ - ج أَعْشِيَّةُ. العِشَايَةُ والغِشَايَةُ والغِشِيَّةُ: پردہ - الغِشِيَّةُ والغِشِيُّ والغِشِيَانُ: بے ہوشی - غشی - غِشَايَاتُ الأَجْنِحَةِ: پروں کے چار حصے والی کیڑے جن میں پھونڈ اور بعض چیونٹی کی اقسام ہیں - الغاشية: مَوْنَثُ غاشِي: پردہ - دل کا پردہ - ج غَشَاوَاتُ: مصیبت - قیامت - اندرونی بیماری کا نام - غَاشِيَةٌ فَلَانٌ: خدام - ملاقاتی دوست احباب جو بار بار آئیں - الغشيان: آنا - غَصَّ (س - ن) غَصَصًا. بِالطَّعَامِ وَالْمَاءِ: کھانے یا پانی سے پھندا لگنا - اچھو	لگنا - مفع (غاصَّ وَغُصَّانٌ) المَكَانُ بِهَمٍّ: بھر جانا اور تنگ ہونا - غَصَّ (ن) غَصَا. الشئ: قطع کرنا - أَغَصَّةُ: اچھو لگوانا - کسی کے گلے میں پھندا لگوانا - کہا جاتا ہے "اغص علينا الارض" اس نے ہمارے اوپر زمین تنگ کر دی - اغصن. المَكَانُ بِيَهَمٍّ: تنگ ہونا - الغصنة: جس کا پھندا لگے - غم - اندوہ - ج غصص - غَصَبَةُ (ض) غَصَبًا عَلَى الشئ: مجبور ہونا الشئ: زبردستی لے لینا المَرْأَةُ : زنا بالجبر کرنا الجِلْدَةُ: کھال سے بال اور اُون دور کرنا - مفع (غاصب) ج غَاصِبُونَ وَغَصَابٌ اور اس کا تعدیر دو مفعول کی طرف ہوتا ہے - کہا جاتا ہے غَصَبَةُ مَالِهِ اور کبھی مفعول اول میں سن کی زیادتی ہوتی ہے - کہا جاتا ہے "غَصَبْتُ مِنْهُ مَالَهُ" اغصبت. الشئ: ظلم ددوستی سے لینا المَرْأَةُ: زنا بالجبر کرنا - غَاصِبُهُ: ہر ایک کا دوسرے سے چھیننا - الغضب: مہم - ججنتی ہونے کی چیز - غَضَنَ (ض) غَضْنَا. الغَضُنُ: ٹہنی کو کاٹنا ٹہنی کو کھینچنا الشئ: لینا ه عَن حَاجِبِهِ: پھیرنا منع کرنا اور کہا جاتا ہے "ما غَضَنَكَ عَنِي" کس چیز نے تم کو مجھ سے پاز رکھا - أَغَصَنَ وَغَصَنَ. العنقودُ: بڑے دانوں والا ہونا - أَعْصَنَتِ الشَّجَرَةُ: درخت کا شاخ دار ہونا - الغصن: شاخ ج غُصُونُ وَأَعْصَانُ وَعَصِنَةٌ. الغصنة: شاخ میں نکلی ہوئی چھوٹی ٹہنی - نُورٌ (أَغَصَنُ) سفید دم کا تیل - غَصَّ (ن) غَصَا وَغَضَا وَغَضَا وَغَضَاةٌ. طَرْفُهُ وَمِنْ طَرْفِهِ او صَوْتُهُ: وَمِنْ صَوْتِهِ: نگاہ یا آواز پرست کرنا - روکنا الغصن: شاخ کو بغیر جدا کئے ہوئے
--	---	---

توڑنا..... الشئی: کم کرنا۔ کہا جاتا ہے "لا
اغضک جوہما" میں ایک درہم کو تین
کروں گا..... من فلان: کسی کا مرتبہ گھٹانا۔
کہا جاتا ہے "غض بصرہ" یعنی جس چیز کا
دیکھنا جاڑتیں اس سے منع کیا۔ "غض
طرفہ لفلان" فلاں کی وجہ سے مکروہ بات
برداشت کر لی۔ "وغض لئی ساعة" یعنی
اپنی سواری کو تھوڑی دیر کے لئے روک لو اور
ظہر جاؤ۔
غض (س ض) غضاضة و غضوضه
النباث وغیره: نباتات کا تروتازہ ہونا۔
صفت (غض) ج غضاض.
غضض: تروتازہ کو گھٹانا۔ تروتازہ و نرم و
نازک ہونا۔ ذلت و خواری لائق ہونا۔
انقض: الطرف: نگاہ کا بند ہونا۔
تفاضض: عنه: غفلت برتنا۔
الغضاض والغضاض: سر کا اگلا حصہ یا
چہرے یا اوپر کا حصہ۔
الغضة: ذلت و نقصان ج غضاض.
الغضیضة والغضاضة ج غضايض:
ذلت و نقصان۔
المغضة ج مغاض: ذلت و نقصان۔
الغض: مضم۔ تروتازہ۔ نازک بدن۔ کہا
جاتا ہے "سباب غض" یعنی تروتازہ بنی
جوانی ج غضاض۔
الغضیض: تروتازہ۔ ناقص۔ ذلیل۔
طرف غضیض: پست نگاہ۔ ج اغضاض
واغضة: مؤنث غضیضة ج غضايض.
غضب (س) غضبا و مغضبة علیہ:
غضبناک ہونا۔ صفت (غضب و غضب
وغضبنا) مؤنث غضبی و غضوب
وغضبائه. ج غضبی و غضاب و غضابی
وغضابی اور کہا جاتا ہے "غضب لفلان"
یعنی فلاں کے لئے غضبناک ہو گیا۔
"وغضب من لاشی" یعنی بغیر کسی سبب
کے غضبناک ہوا۔
اغضبه و غاضبه مغاضبه: غضب پر

برا ہیجت کرنا۔ و غاضبته: ایک کا دوسرے کو
غصہ دلانا۔ غاضب فلانا: ناراض کرنا۔
ایک دوسرے کو ناراض کرنا۔ اغضبت
العین: آنکھ کا تنکا وغیرہ نکال دینا۔
تغضب واستغضب علیہ: غضبناک ہونا۔
الغضبة: غضب کا اسم مرہ۔ مچھلی کی کھال۔
سر کی کھال۔
الغضاب والغضاب: آنکھ کا تنکا۔
الغضابی: کلدرد زندگی بسر کرنے والا۔
الغضب والغضبة والغضبة والغضبة:
غضبناک۔
غضرة (ن ض) غضرا. الله: خوش حال
کرنا۔ آسودہ حال بنانا۔ غضر الرجل:
کسی کو روکنا۔ منع کرنا..... الشئی: کاٹنا۔
غضیر (س) غضرا و غضارة: آسودہ
حال ہونا۔ بہت مال دار ہونا۔ اچھی زندگی
والا ہونا۔ صفت (غضیر)
غضر (ض) غضرا و تغضر عنه: تجاوز
کرنا۔ پھر جانا۔ غضر علیہ: ناکل ہونا.....
لفلان من ماله: مال میں سے کچھ دینا۔
اغضیر: جوان مرنا۔
الغضار: خالص چپکنے والی مٹی۔ چپکنے والی
مٹی کا بنا ہوا پیالہ۔ سبز رنگ کی ٹھیکری جو نظر
بد سے بچنے کے لئے رکھتے ہیں۔
الغضارة: مضم۔ نعمت۔ آسودہ زندگی۔
وسعت و آسودہ حالی۔ سبز رنگ کی ٹھیکری جو
نظر بد سے بچنے کے لئے استعمال کرتے
ہیں۔ خالص مٹی۔ بڑا پیالہ۔ ج غضائر.
الغضراء: من الارض: پانی کے قریب کی
عمدہ زمین۔ وہ زمین جس میں خالص مٹی ہو
اور قحطاء: ایک پرندہ ہے اس کو بھی غضراء
کہتے ہیں۔ ج غضراء کہا جاتا ہے "ہم فی
غضرا من العیش" وہ لوگ آسودہ حالی اور
خیر میں ہیں۔
الغاضر: فاعل۔ کھال جس کی دباغت
اچھی ہوئی ہو۔ اپنی ضروریات کے لئے
تڑکے جانے والا۔ مؤنث (غاضرة)

الغضیر: نرم و نازک۔ سبز رنگ والا۔ اراض
غضیرة: خالص مٹی والی زمین۔
المغضیر: صاحب نعمت و آسودہ حال۔ ج
مغضیرون.
المغضور: صاحب نعمت و آسودہ حال۔ ج
مغضورون و مغاضیر.
المغضوف: بمعنی غرضوف.
غضغض. الماء: پانی کم کر دینا۔
..... وتغضغض. الماء: پانی کم ہونا۔
پایاب ہونا۔
غضف (ض) غضفا. الفود: بکڑی توڑنا
..... الکلب اذنه: کتے کا پنے کان کو ڈھیلا
کرنا..... الوسافة: تکیہ کو موڑنا۔ دوہرا کرنا
(..... غضوفا) آسودہ حال ہونا۔
غضف (س) غضفا. اللیل: رات کا
تاریک ہونا۔ غضفت الاذن: خلیقہ:
ڈھیلا ہونا۔ صفت (غضفاء) ج غضف.
غضف العیش: آسودہ ہونا۔ صفت
(اغضف و غاضف)
اغضف. اللیل: رات کا تاریک ہونا۔
..... السحاب: بادل کا چھاجانا اور آدہ
بارش ہونا۔
غضف. الشئی: لٹکانا۔
تغضفت. التجارية: چلکانا۔ ناز و انداز سے
چلنا..... الحیة: کنڈلی مارنا اور کہا جاتا ہے
"تغضفت الدنيا علیہ" دنیا اس کی طرف
متوجہ اور مائل ہے۔ تغضف علیہ اللیل:
رات کا آنا۔ البئر: کنوئیں کا منہم ہونا۔
انغضفت البئر: کنوئیں کا گرنا۔ انغضفت
اذنه: کان کا ٹوٹنا..... الضباب: کہر کا تہ
ہونا..... السقوم فی الغبار: قوم کا غبار میں
داخل ہونا۔
الغضايف: فاعل۔ خوش حال۔ خوش عیش۔ کتا
جس کا کان آگے کو لٹکا ہوا ہو۔
الغضف: درخت خرما کے مانند ایک درخت
واحد (غضفة)
الغضفر: شیرخت جسم والا مرد۔

<p>غرقی: سب خوار کے مانند ایک پرندہ۔ الْأَغْطَفُ: لکھے ہوئے کان کا کتا۔ مونے بیروں کا تیر۔ تاریک رات۔ غَبْشُ أَغْطَفُ: خوش حال زندگی۔ غَضْنُهُ (نض) غَضْنَا عَنْ كَذَا: منع کرنا۔ روکنا۔ الناقَة: اونٹنی کا تمام بچہ گرائنا اور اسم (الغضان) ہے۔ أَغْضُنُ السَّحَابُ: لگا تار بارش ہونا۔ أَغْضُنْتُ عَلَيْهِ الحُمَى: تیز بخار آنا اور بیشر رہنا۔ عَلَيْهِ اللَّيْلُ: رات کا تاریک ہونا۔ غَاضَنُ مُغَاضِنَةً: غَيْبَهُ: آکھ کھ چھپانا۔ السَّمْرَةُ: آکھ چھپکا کر عورت سے بات چیت کرنا۔ غَضْنُ الشَّيْءِ: موڑنا۔ شکن ڈالنا۔ غَضِبَتِ السَّمَاءُ: لگا تار برسنہ۔ الناقَة: اونٹنی کا تمام بچہ گرائنا۔ تَغْضُنُ: مڑنا۔ شکن پڑنا۔ الغَضْنُ والغَضْنُ: کپڑے یا کھال کی شکن۔ شکن۔ مشقت۔ غَضْنُ العَيْنِ: آکھ کی ظاہری کھال ج غَضُونُ. غَضُونُ الأذن: کان کی سلوٹ۔ کہا جاتا ہے "زَجَلْ ذُو غَضُونٍ" پشانی پر شکن والا آدمی "وگسان الأمر ففی غَضُونٍ ذَلِکَ" یعنی اس کے درمیان میں۔ الغَضْنَةُ الغَضْنَةُ: باریک چھلکا جو چھپک والے کی جلد پر ہوتا ہے۔ الغَضِينُ: اونٹنی کا تمام بچہ۔ الأغْضُنُ: خلتقا تکبر یا عداوت کی وجہ سے آکھ سمیٹنے والا۔ غَضَا يَغْضُو غَضُوا اللَّيْلُ: تاریک ہونا البَعِيرُ: اونٹ کا درخت غفا چرنا۔ صفت (غاض) غَضُواً: نعمت اور آسودہ حالت میں ہونا۔ صفت (غاض) مَوْنَتْ (غاضیة) ج غواضی.</p>	<p>کے کھانے سے اونٹ کے پیٹ میں درد ہونا۔ صفت (غاض) مَوْنَتْ غَضِيَّةٌ ج غضایا غَضِيَّتِ الأَرْضُ: بہت درخت والی ہونا۔ أَغْضَى اِغْضَاءً. اللَّيْلُ: رات کا تاریک ہونا۔ صفت (غاض) خلاف قیاس۔ أَغْضَى غَيْبَهُ: آکھ بند کرنا۔ عَلِيٌّ الأَمْرُ: خاموش رہنا۔ صبر کرنا۔ کہا جاتا ہے "أَغْضَى عَنْهُ طَرَفُهُ" اس سے اس نے نگاہ پھیر لی۔ "و" أَغْضَى عَلِيٌّ القَدَى" اس نے صبر کیا اور معاف کر دیا۔ تَغَاضَى: آکھیں بند کر لیا۔ غَنَهُ: غفلت برتنا۔ الغَضَا: جھکاؤ کا درخت جس کی لکڑی بہت سخت ہوتی ہے اور اس کی چنگاری دیر تک نہیں بجھتی۔ واحد (غَضَاة) جھاڑی۔ أَهْلُ الغَضَا: نجد کے رہنے والے۔ الغَضِيَّةُ غَاضِيٌّ: کامونٹ۔ تاریک۔ روشن۔ کہا جاتا ہے "السِّلَةُ غَاضِيَّةٌ" یعنی تاریک رات "نَارٌ غَاضِيَّةٌ" یعنی روشن آگ۔ آگ ج غَوَاضِيٌّ. الغَضِيَاءُ: غضا: کئے گئے کی جگہ۔ اَرْضُ غَضِيَاءٌ: بہت درخت غفا والی زمین۔ غَطَّ (نض) غَطًّا وَغَطَّ الشَّيْءُ فِي المَاءِ : پانی میں ڈوبا وغوطہ دینا۔ غَطَّ (نض) غَطًّا: سخت نچوڑنا۔ غَطَّ (ض) غَطِيظًا. النَّايِمُ: سونے والے کا خراٹے لیتا۔ البَعِيرُ: اونٹ کا بلبلانا۔ تَغَاطَّ: الرَّجُلَانِ فِي المَاءِ: ایک دوسرے کو پانی میں ڈوبانا۔ الغَطُّ فِي المَاءِ: پانی میں ڈوبنا۔ الغَطَّاطُ: سب خوار پرندے کی ایک قسم۔ والغَطَّاطُ: صبح کی ابتداء۔ الغَطِيظَةُ: تیز تلواریں۔ غَطَّرَسَ غَطَّرَسَةً: عَلِيٌّ فُلَانٌ: تکبر کرنا الرَّجُلُ: اپنے ہم عمروں پر دست</p>	<p>درازی کرنا۔ بِالسَّيِّءِ: خود پسند ہونا۔ غَضِبْنَاكَ کرنا۔ تَغَطَّرَسَ: ناز کرنا۔ تکبر کرنا۔ غَضِبْنَاكَ ہونا۔ بخل کرنا۔ الغَطَّرَسُ: تکبر۔ خود پسند۔ ج غَطَّارِسُ. الغَطَّرِسُ: تکبر۔ خود پسند۔ ج غَطَّارِسُ. غَطَّرَسَ. اللَّيْلُ بُصْرَةٌ: رات کا نگاہ کو تاریک کرنا۔ بَصْرُهُ: لگا تار تاریک ہونا۔ الرَّجُلُ: بڑائی ظاہر کرنا۔ تَغَطَّرَفَ: ناز و انداز سے چلنا۔ تکبر کرنا۔ الغَطَّرَفَةُ: تکبر۔ الغَطَّرَافُ والغَطَّرِيفُ: بخی۔ سردار۔ خوش طبع جوان۔ خوبصورت ج غَطَّارِفَةٌ وغَطَّارِيفُ. الغَطَّرِيفُ: باز کا بچہ۔ کھسی۔ الغَطَّرُوفُ والغَطَّرُوفُ: خوبصورت خوش طبع جوان۔ غَطَّسَ (ض) غَطَّسًا. فِي المَاءِ: پانی میں غوطہ کھانا۔ فِي المَاءِ: غوطہ دینا۔ فِي الأَنْبَاءِ: برتن میں منہ لگا کے پینا۔ غَطَّسَهُ. فِي المَاءِ: پانی میں غوطہ دینا۔ تَغَاطَّسُوا. فِي المَاءِ: پانی میں ایک دوسرے کو غوطہ دینا۔ تَغَاطَّسَ الرَّجُلُ: غفلت برتنا۔ الغَاطِسُ. فَا. لَيْلٌ غَاطِسٌ: تاریک رات۔ الغَاطِسُ عِنْدَ النَّصَارَى: نصرانیوں کی ایک عید۔ الغَاطِسُ: قعر دریا تک غوطہ لگانے والا۔ ایک پردہ جس کو غَوَاضُ: بھی کہتے ہیں۔ الغَطَّوسُ: لڑائیوں میں پیش قدمی کرنے والا۔ المَغَطِّسُ: غوطہ لگانے کی جگہ۔ المَغَطِّسُ: بڑا برتن جس میں غوطہ لگائیں۔ ج مَغَاطِسُ. غَطَّشَ (ض) غَطَّشًا. اللَّيْلُ: رات کا تاریک ہونا۔ صفت (غاطش) وَغَطَّشَ</p>
--	--	---

الغَطَطِيسُ: عیسائیوں کے پشم کا دن۔

غَطَشُ (ض) غَطَشًا وَغَطَشَانًا: مرض یا بڑھاپے کی وجہ سے آہستہ آہستہ چلنا۔

غَطَشُ (س) غَطَشًا: کمزور نظر والا ہونا۔ صفت (اغطش و غطش) مؤنث (غطشاء و غطشة) ج غطش و غطشات۔

اغطش. اللیل: رات تاریک ہونا۔

اللہ اللیل: رات کو تاریک کرنا۔

تَغَطَّشْتُ. عَيْنُهُ: نگاہ کمزور ہونا۔

تَغَطَّشَ. عُنُقُهُ: اندھا بننا و غفلت برتنا۔

اغطاش: کمزور نظر والا ہونا۔

الغطاش: رات کی تاریکی۔

الغطش. فی العین: سیلان الحک کے ساتھ نظر کی کمزوری۔

فَلَائَةٌ (غَطَشَاءُ وَغَطِيشٌ وَغَطِيشِي) چٹیل میدان جس میں راستہ کا پتہ نہ ہو۔ کہا جاتا ہے "فَلَائَةٌ غَطِيشِي وَنَحْنُ كَمَرِّ مَالِهَا غَطِيشِي" چٹیل میدان تھا اور ہم اس میں

اسی میدان کی ریت کے مانند پیاسے تھے۔

لیلۃ غطشاء: تاریک رات۔

غَطَطَطَتْ غَطَطَةً. القُدْرُ: ہانڈی کا جوش

مارنا..... النَوْمُ عَلَى فُلَانٍ: نیند کا غالب آنا

..... وَتَغَطَّطَ النَّحْرُ: سمندر میں موجوں کا

بلند ہونا۔ تَغَطَّطَ الشَّيْءُ: بکھرتا۔ متفرق

ہوتا۔

الغَطَطِيطَةُ: بصر۔ رنگ خوراک کی آواز کے

مانند نقل کرنا۔

غَطِطَ (س) غَطَطًا: پیلوں کا طویل ہونا

اور مزجانا۔ صفت (اغطط) مؤنث (غططاء) ج غطط.

الغطط: بصر۔ وسعت عیش۔

الاعطط. مِنَ العَيْشِ: آسودہ زندگی۔

البعطط: بڑا سمندر۔ وسیع الاخلاق آدمی۔

جماعت کثیر۔

غَطَطَطَ. النَّحْرُ: سمندر کا بلند موجوں والا

ہونا..... القُدْرُ: ہانڈی کا جوش مارنا۔

السَّيْلُ: آواز دینا۔

تَغَطَّطَ. النَّحْرُ: سمندر کا جوش مارنا اور

موجوں کا بلند ہونا..... الصَّوْتُ: آواز کا

گلوگیر ہونا۔

نَحْرٌ (غَطَطِيطٌ) بڑی موجوں والا سمندر۔

الغَطَطِيطُ: بڑا سمندر۔

غَطًا يَغْطُو غَطْوًا وَغَطْوًا. الشَّيْءُ: چھپانا

..... السَّمَاءُ وَغَيْرُهَا: بلند ہونا..... السَّيْلُ:

رات کی تاریکی کا سبب چیزوں کو چھپانا۔

غَطِي تَغْطِيَةٌ وَأَغْطِي إِغْطَاءً. الشَّيْءُ:

چھپانا۔ أَعْطَى الحَرَمَ: پانی جاری ہونا اور

تیل کا پھیلنا۔

تَغَطَّى وَأَغْطَى: چھپنا۔

الغِطَاءُ: پردہ۔ سرپوش۔ ج غَطِيَّة.

الغِطَاءِيَّةُ: عورت کی کرتی۔

غَطِي يَغْطِي غَطِيًا وَغَطِيًا. اللَّيْلُ: رات کا

تاریک ہونا..... السَّبَابُ: جوانی کا بھر پور

ہونا..... السَّمَاءُ: پانی کا بہت ہونا۔ صفت

(غاط)..... الشَّيْءُ وَعَلَى الشَّيْءِ: چھپانا۔

..... وَأَغْطَى. الشَّجَرُ: درخت میں بسی بسی

شاخوں کا ہونا۔ أَعْطَاهُ: چھپانا۔

الغِطَاءِيَّةُ: مؤنث غاطی: انکور کی تیل۔

غَفَّ الطَّائِرُ: پرندے کا کرنا۔

إِغْتَفَّتْ وَتَغَفَّفَتْ. الذَّابَّةُ: جانور کا موسم

بہار کے چارہ پر پہنچنا۔ إِغْتَفَّتِ الذَّابَّةُ:

چوپایہ کا چارہ پانا۔ إِغْتَفَّتْ فَلَائًا: تھوڑا

دینا۔

تَغَفَّفَ. الإِنَاءُ او الضَّرْعُ: برتن یا تھن کے

بقیہ کو لینا۔

العَفْفُ: خشک شدہ پتے۔

العَفَّةُ: چارہ جس کو اونٹ منہ سے جلدی لے

سکے۔ گزرا۔ عَفَّةُ الإِنَاءِ او الضَّرْعِ: برتن

یا تھن کا بقیہ۔ العَفَّةُ: چوبہ۔

غَفَّرَ (ض) غَفْرًا. الشَّيْءُ: ڈھاکننا۔

..... الشَّيْبُ بِالسَّخْطِ: سفید بالوں کو

خشب سے چھپانا۔

غَفَّرَ وَغَفِيرًا وَغَفِيرَةً وَغَفْرًا وَمَغْفِرَةً

وَغَفْرًا. لَهُ الذَّنْبُ: چھپانا اور معاف کر

دینا..... الأَمْرُ: درست کرنا۔

غَفَّرَ (ض) وَغَفِيرَ (س) غَفْرًا وَغَفِيرَ

السَّمْرِئِصِ: مریض کا دوبارہ بیمار ہونا۔ غَفِيرَ

وَغَفْرَ السَّجْرِخِ: زخم کا تازہ ہونا۔ غَفَّرَ

الثَّوْبَ: کپڑے کا روئیں دار ہونا۔

غَفَّرَ. الشَّيْءُ: چھپانا ڈھاکننا..... الرَّجُلُ:

غفر اللہ لہ: کہنا۔

أَغْفَرَهُ: چھپانا۔ أَغْفَرُ الرِّمْتِ: گوند نکالنا۔

تَغْفَرُ: گوند چننا۔

تَغْفَرُوا: ہر ایک کا دوسرے کے لئے

مغفرت کی دعا کرنا۔

إِغْفَرَ. اللّٰهُ ذَنْبَهُ: بخش دینا۔

إِغْفَارُ الثَّوْبِ: روئیں دار ہونا۔

إِسْتَفْغَرَ. اللّٰهُ الذَّنْبَ وَمِنَ الذَّنْبِ: بخشش

طلب کرنا۔

الغَفْرُ وَالغَفْرُ: روال کپڑے کا۔ الغفر:

چھوٹی چھوٹی گھاس (الغفر والغفر

والغفار) گردن وغیرہ کے چھوٹے چھوٹے

بال۔

الغفر والغفر: پہاڑی بکری کا بچہ۔ ج غَفْرَةٌ

وَأَغْفَارٌ وَغَفُورٌ.

الغفر: گائے کا بچہ۔

الغَفْرُ: گردن وغیرہ پر چھوٹے چھوٹے بال

والا۔ کہا جاتا ہے "زَجَلُ غَفْرٍ القفا وَأَمْرَاةٌ

غَفْرَةٌ الوَجْهِ".

الغفار: رخسارہ پر نشان۔

الغَفْرَةُ: ڈھکانا۔ سرپوش۔ کہا جاتا ہے "غفر

الشَّيْءُ بِغَفْرَتِهِ" اس نے مناسب طریقہ سے

اصلاح کر دی۔

الغَفَاةُ: خود جس کو فوجی ٹوٹی کے پیچھے پہنتا

ہے کلوا کہ جس سے کمان کے گوشہ کو لپیٹتے

ہیں۔ جھپٹوا جس سے عورتیں اور زنی کو میل یا

تیل وغیرہ سے بچاتی ہیں اور وہ چیز جس سے

کسی چیز کو چھپائیں۔

الْغَفَاةُ: کسی چوڑی چادر جس کو علمائے یہود اور ستمے تھے۔
 الْغَافِرُ: فَاحٌ غَافِرُونَ وَغُفْرَةٌ۔
 الْغَفُورُ: بہت بخشنے والا۔ مَوْتٌ وَنَدْرٌ دُونِوْنَ کے لئے مستعمل ہے۔
 الْغَفَّارُ: بہت بخشنے والا۔ مَوْتٌ غَفَّارَةٌ۔
 الْغَفِيرُ: مَصْر۔ رواں۔ کہا جاتا ہے "جَاوُوا جَمًّا غَفِيرًا وَجَمَّ الْغَفِيرِ وَالْجَمُّ الْغَفِيرُ" یعنی جماعت آگئی جس میں شریف و رذیل سبھی قسم کے لوگ ہیں۔
 الْمَغْفِرَةُ: پہاڑی بکری پھروالی جِ مَغْفِرَاتٍ۔
 الْمِغْفَرُ وَالْمَغْفِرَةُ: خود جس کو فوجی ٹوپی کے نیچے پہنتا ہے۔ جِ مَغْفِيرٍ۔
 الْمَغْفَرُ وَالْمَغْفِرُ وَالْمَغْفُورُ: ایک قسم کا گوند جو بعض درختوں سے نکلتا ہے۔ جِ مَغْفِيرٍ وَمَغْفِيرٍ. اَرْضٌ (مَغْفُورٌ) وہ زمین جس میں یہ گوند بہت نکلتا ہے۔
 الْغُفُورُ: خرپوزہ کی ایک قسم۔
 الْغَفَشُ: آنکھ کا کچھڑ۔
 غَافِصَةُ غَفَاصًا وَمَغَافِصَةٌ: اچانک آ جانا۔ اچانک پڑ لینا۔
 الْغَافِصَةُ: مصیبت زمانہ جِ غَوَافِصٍ۔
 غَفَقَهُ (ض) غَفَقًا بِالسُّوْطِ: کوڑے سے بہت مارنا۔ غَفَقَ عَلَيْهِ: کسی پر اچانک آ جانا۔
 الرَّجُلُ: اچانک واپس آ جانا۔
 غَفَقَةٌ: کچھ ٹھوڑا سا سونا۔
 غَفَقٌ: اس طرح سونا کہ لوگوں کی باتیں سن رہا ہو۔
 تَغَفَّقَ الشَّرَابُ: تمام دن شراب پینا یا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پینا۔
 اغْتَفَقَ بِهِ: احاطہ کرنا۔
 الْغَفَقُ: مَصْر۔ ہلکی بارش۔
 الْمَغْفَقُ: مرجح۔ لوٹنے کی جگہ۔
 الْمَغْفَقُ: واپس ہونے اور مرنے کی جگہ۔
 غَفَلَ (ن) غَفْسُولًا وَغَفْلَةً وَغَفْلًا غَفْهُ: غَافِلٌ هُوَ: جھوٹا ہونا۔ جھوٹ دینا.....

الشِّيءُ: چھپانا۔
 غَفَلَهُ: غَافِلٌ بِنَانَا۔ غَافِلٌ كَهَذَا۔ غَفَلَ الشِّيءُ: غَفَلَ الشِّيءُ: چھپانا۔
 اغْفَلَ الشِّيءُ: چھوڑ دینا..... غَافِلٌ نَامٌ رَكْنَا۔ غَافِلٌ كَهَذَا..... الْكِتَابُ: نطقے نہ رکھنا..... ہ: کام کے وقت کو پوچھنا اور فرصت کا انتظار کرنا۔
 غَافِلُهُ وَتَغَفَّلُهُ وَاغْتَفَّلَهُ وَاسْتَفْتَلَهُ: غفلت کے وقت کا انتظار کرنا۔ اغْتَفَّلَهُ: غَافِلٌ كَهَذَا۔
 تَغَافَلَ: تَغَافَلَ: تَغَافَلَ بِنَانَا تَغَافَلَ: غفلت کے وقت کا انتظار کرنا۔ تَغَافَلَ عَنِ الْأَمْرِ: غَافِلٌ هُوَ۔ بھول جانا۔
 الْغُفْلُ: مَصْر۔ فرائضی عیش۔ کہا جاتا ہے "هُوَ فِي غُفْلٍ مِنْ عَيْشِهِ" وہ فرائضی عیش میں ہے۔
 الْغُفْلُ: بے علامت۔ بے حسب آدمی.....
 مِنْ الشَّعْرِ: جس کا قائل معلوم نہ ہو..... مِنْ الْأَرْضِ: غیر آباد زمین..... مِنْ الرِّجَالِ: ایسا آدمی جس سے نہ خیر کی توقع ہو نہ شر کا اندیشہ۔ مِنْ الْكُتُبِ: جس کا مصنف معلوم نہ ہو۔ مِنْ الشُّعْرَاءِ: مجھول شاعر جِ اغْفَالٍ۔ نَعَمْ (اغْفَال) بے علامت چوپائے۔
 الْغَافِلُ: فَاحٌ غَافِلُونَ وَغُفُولٌ وَغُفْلٌ۔ الْغُفْلَانُ: غَافِلٌ۔
 الْغُفْلَانُ: غَافِلٌ۔ غفلت ورزی اور بے خبری۔
 الْمَغْفَلَةُ: ڈاڑھی بچ۔
 الْمَغْفَلُ: مِصْر۔ بے خبر آدمی۔ سادہ لوح۔
 غَفَا يَغْفُو غَفْوًا وَغُفْوًا وَغَفِي يَغْفِي غَفِيَةً وَغَفِيً: اوگھنا۔ ہلکی نیند سونا۔ کہا جاتا ہے اغْفَيْتُ: اور غَفَيْتُ: کم بولا جاتا ہے۔ غَفَا الشِّيءُ: پانی پر تیرنا۔
 الْغَفْوَةُ: غَفَا: کا اسم مرہ۔ ہلکی نیند۔
 غَفِي يَغْفِي غَفِيًا وَغَفِيً: الطَّعَامُ: غلہ کو صاف کرنا۔ وَاغْفِي الطَّعَامُ: بہت کوڑا کرکٹ والا ہونا۔ اغْفِي الرَّجُلُ: کھلیان

میں بھوسہ پر سوجانا۔
 الْغَفِيُّ: الشِّيءُ: ٹوٹنا۔
 الْغَفِيُّ: گیہوں کا پھینکن۔
 الْغَفْيَاءُ: گیہوں کا پھینکن۔ درخت خرما کے لئے آفت جو غبار کے مانند ہوتا ہے اور میوؤں کو پکنے نہیں دیتا۔
 الْغَفِيَّةُ: بلند ٹیلہ جس پر پانی نہ چڑھے۔
 الْغَفَاءَةُ: آنکھ کی سفیدی۔
 غَفَى (ض) غَفَاً وَغَفِيَةً. الْقَارُ: قار کا جوش مارنا اور اس کی آواز سنائی دینا (دیکھئے قار)..... الصَّقْرُ: شکرہ کا آواز کرنا۔
 غَفَى السَّمَاءُ وَغَفِيَهُ: تنگ جگہ میں پانی کے داخل ہونے کی آواز۔
 الْغَفَّاقُ: اسم مبالغہ۔
 غَفَلَهُ (ن) غَفْلًا. فِي الشِّيءِ: داخل کرنا۔
 غَلَّ الْمَسَافِرَةَ: بیابان میں داخل ہونا.....
 الشِّيءُ: چپکے سے لینا اور اپنے سامان میں ملا دینا..... الْمَاءُ بَيْنَ الْأَشْجَارِ: پانی کا درختوں کے درمیان جاری ہونا۔ نگاہ کا راہ راست سے بھٹک جانا۔
 غَلُولًا: خیانت کرنا..... فِي الشِّيءِ: داخل ہونا..... فِي الْبِلَادِ: گھسے ہوئے چلے جانا۔
 غَلَّ (ن) غَلًّا وَغَلَّلَ. الْغِلَالَةُ: غلالہ: پہننا۔ (دیکھئے غلالہ) غَلَّهُ وَغَلَّلَهُ: ہاتھ میں پھٹھڑی یا گلے میں طوق ڈالنا۔
 غَلَّ (ض) غَلًّا وَغَلِيلًا. صَدْرُهُ: کینہ والا ہونا۔ دھوکے فریب والا ہونا۔
 غَلَّ غَلًّا وَغَلَّةً: سخت پیاسا ہونا۔ صفت (غَلِيلٌ وَمَغْلُولٌ وَمُغْتَلٌّ)
 اغْلَبَ الرَّجُلُ: خیانت کرنا۔ اغْلَبَ الْأَرْضُ: غلہ والی ہونا۔ غلہ پیدا کرنا..... اغْلَبَ الْبَصْرُ: تیز نظر کرنا۔ اغْلَهُ: خیانت کی طرف نسبت کرنا..... غَلِي عِيَالِهِ: بال بچوں کے لئے غلہ لانا..... الْخَطِيبُ: خطیب کا اپنے کلام میں صواب کو نہ پہنچنا..... الْجَاوِزُ فِي الْجَلِيدِ: قصائی کا کچھ گوشت اور چربی کے ساتھ کھال کو کھینچنا۔

ڈالنا۔

المَغْلُطَةُ: وہ مسائل مبہمہ جس سے آدمی کو غلطی میں ڈالا جائے۔ وہ چیز جس میں غلطی کی جائے یا کثرت سے جس میں غلطی واقع ہو۔ ج مغالیط۔

الْمَغْلُوطَةُ: بمعنی مغْلُطَةٌ جِ الْمَغْلُوطَاتِ وَأَعْيَالِيطُ.

المَغْلُوطَةُ: بمعنی مَغْلُطَةٌ کہا جاتا ہے ہذہ مَسْأَلَةٌ غَلُوطَةٌ: یعنی یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں بکثرت غلطی ہوتی ہے۔

المِغْلَاطُ: بہت غلطی کرنے والا۔

غَلَطَ (ن ض) وَغَلَطَ (ك) غَلَطًا

وَعَلْطَةً وَعِظْلَةً وَغَلَطَةً وَغِلَاطَةً: موٹا

ہونا۔ گاڑھا ہونا۔ سخت ہونا۔ صفت (غَلِيطًا)

جِ غِلَاطٍ وَغِلَاطِ (ج غَلَطَةٍ غَلَطَتِ

السُّبُلَةُ: خوش میں دانہ لگانا..... الرَّجُلُ:

سخت و تندرخت ہونا۔

غَلَطَهُ: گاڑھا کرنا۔ غَلَطَ الِیَمِینَ: جسم کو

موکد کرنا..... عَلَيْهِ فِي الِیَمِینَ: جسم میں سختی

کرنا۔ کہا جاتا ہے "أَخَذَ مِنْهُ مِثْقَالَ غَلِيطًا"

اس سے پختہ عہد لیا۔

أَغْلَطَ. الْمُسَافِرُ: مسافر کا سخت زمین پر

ارتنا..... الشُّيْ: غلطی پانا..... لَكِ فِي الْقَوْلِ:

درشت کلامی کرنا۔ سختی سے جھڑکنا۔

غَالَطَ مَغَالِطَةً: دشمنی کرنا۔ مقابلہ کرنا۔

إِسْتَغْلَطَ: گاڑھا ہونا۔ موٹا ہونا۔ سخت ہونا

..... الشُّي: موٹا پانا۔

الغَلَاظُ: گاڑھا۔ موٹا۔ سخت۔

الغَلُظُ: سخت زمین۔

العِلْطَةُ: مص۔ سختی۔ گندمی۔ موٹا پانا۔ بد خلقی۔

کہا جاتا ہے "بَسْتَنَهُمْ عِلْطَةً" یعنی ان کے

درمیان عداوت ہے۔

غَلَفَ (ن) غَلَفًا. الشُّي: ڈھانکنا۔ غلاف

میں ڈالنا۔

غَلَفَ (س) غَلَفًا: غیر محتون ہونا۔

غَلَفَ. الشُّي: غلاف میں ڈالنا۔ ڈھانکنا۔

چھپانا۔

أَغْلَفَ. الشُّي: غلاف بنانا۔ غلاف میں

ڈالنا۔

تَغْلَفَ وَاعْتَلَفَ: غلاف میں ہونا۔

تَغْلَفَ الرَّجُلُ: داڑھی میں عالیہ۔ یعنی

مرکب خوشبودار گانا۔ اِعْتَلَفَ بِالغَالِيَةِ: عالیہ

خوشبودار گانا۔

الغَلْفُ: مص۔ ایک درخت ہے دباغت کے

کام میں آتا ہے۔

الغَلْفَةُ: خنتہ کا چہرا جس کو خنتہ کرنے والا کاتا

ہے جِ غَلَفَتِ الْغُلْفَتَانِ: موچھوں کے دونوں

کنارے۔

الْمَغْلَفُ: غلاف شدہ کتاب۔

الْأَغْلَفُ: غیر محتون۔ کہا جاتا ہے قَلْبٌ

أَغْلَفٌ: یعنی ایسا دل جو نہ محفوظ رکھے نہ سمجھے

"عَامٌ أَغْلَفٌ" ارزانی کا سال۔

الغِلَافُ: وہ چیز جس میں کوئی چیز داخل کی

جائے اور چھپائی جائے جیسے میان بزوان

جِ غَلَفَتْ وَغُلْفَتْ وَغُلْفَتْ.

الغَلْفَاءُ. أَغْلَفَ: کاموٹ جِ غُلْفِ أَرْضِ

غَلْفَاءَ: بغیر چری ہوئی زمین۔ سَنَةٌ غَلْفَاءٌ:

ارزانی کا سال۔

غَلِقَ (س) غَلِقًا: تنگ دل ہونا۔ زبج

ہونا۔ غضبناک ہونا۔ بد خلق ہونا۔ صفت

(غَلِيقٌ)..... الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمُؤْتَهِنِ: حق

مرتب ہونا اور یہ اس وقت جبکہ راہن رہن

چھڑانے سے عاجز ہو جائے۔

أَغْلَقَ وَغَلِقَ. الْبَابُ: دروازہ بند کرنا اور

تادور طریقہ پر بولا جاتا ہے۔

غَلِقَ (ض) غَلِقًا..... اور یہ أَغْلَقَ: میں

ایک ردی لغت ہے۔

أَغْلِقُ. عَلَيْهِ الْأَمْرُ: معاملہ کا بہم ہونا۔

أَغْلِقُ الْقَسَائِلَ فِي يَدِ الْوَالِي: قائل کو والی

کے قبضہ میں دیا جاتا تا کہ جو چاہے فیصلہ

کرے۔ کہا جاتا ہے "أَغْلَبْتُ فَلَانًا"

بجریوتہ "فلاں اپنے جرم کی وجہ سے حوالہ کیا

گیا اور اسم (الغَلَقُ) ہے۔

غَالِقَةٌ مَغَالِقَةٌ: شرط لگانا۔

تَغَالَقَ. الْقَوْمُ: ایک دوسرے سے شرط لگانا۔

إِسْتَغْلَقَ. الْبَابُ: دروازہ کا کھلنا و دشا ہونا۔

الْكَلَامُ عَلَى فُلَانٍ: گفتگو کا بند ہو جانا۔

الغَلَقُ: قتل۔ تالا۔ بزا دروازہ..... عِنْدَ

النَّائِبِينَ: معماروں کی اصطلاح میں غَلَقٌ اس

پتھر کو کہتے ہیں جو محراب یا قبة کے بیچ میں لگایا

جاتا ہے جِ غَلَقٌ: جِ أَغْلَاقِي.

كَلَامٌ (غَلِيقٌ وَمَغْلَقٌ) مشكل كلام جس کا سمجھنا

دشوار ہو۔

بَابُ (غَلِيقٌ) بند دروازہ۔

المغلق: جوئے کے فائدہ بخش تیروں میں

سے ایک تیرج مغالیق.

المغلق والمغلق والمغلق: قتل۔ تالا

جس سے دروازہ بند کیا جائے۔ جِ مغالیق.

غَلِيمٌ (س) غَلِمًا وَغَلِمَةً وَاعْتَلِمَ: شبوت

پرست ہونا۔ صفت (غَلِيمٌ وَغَلِيمَةٌ وَمَغْتَلِمٌ)

مَوْتٌ غَلِمَهُ وَغَلِمَهُ وَغَلِمَهُ وَمَغْلِمَةٌ

اغصم الشراب: جوش مارنا۔ اِغْلَمَتِ

الأمواج: تیز ہونا۔

السَّلامُ: سبز خط۔ نوجوان۔ غلام۔ مزدور جِ

يَعْلَمَانِ وَغَلِمَةٌ وَاعْلِمَةٌ.

الغلامة: غلام کاموٹ۔ باندی۔ لونڈی۔

الغُلُومَةُ وَالغُلَامِيَّةُ وَالغُلُومِيَّةُ: نوجوانی۔

الغَيْلَمُ: تذکر۔ کچھو۔ مینڈک۔ کنوئیں میں

پانی کا سوت۔ بہت بالوں والا نوجوان۔ کہا

جاتا ہے "مَافِي الدَّارِ غَلِيمٌ" یعنی گھر میں

کوئی نہیں۔

غَلَنَ (ض) غَلَنًا الشَّبَابُ: جوش پر ہونا۔

غُلُوَانٌ. الشَّبَابُ أَوِ الْأَمْرُ: جوانی کی نشاط

اور ابتداء۔

غَلَا يَغْلُو غُلُوًا: زیادہ ہونا بلند ہونا.....

السَّبْتُ: نباتات کا گنجان اور بڑا ہونا.....

بالدین: دین میں جوشیلا و پختہ ہونا۔

غَلَا غَلَاءً. البعير: بھاد بڑھ جانا۔ صفت

(غَالٌ وَغَلِيٌّ)

غَلَا يَغْلُو غُلُوًا وَغُلُوًا. السَّهْمُ وَبِالسَّهْمِ:

تیر کو انتہائی دور تک پھینکنا۔

غَالِي غِلَاءٌ وَمُغَالَاةٌ. السَّهْمُ وَبِالسَّهْمِ : تِيرَانِ تَهْتَانِ دُورَتِك پھینکنا..... فِى الْأَمْرِ : مہالذ کرنا..... بِالسُّنْبِي : قِیْمَتِ بَرَحَاتِنَا- گراں قِیْمَتِ پَر خَرِیدِ نَاوِ غَالِي الرُّجُلِ : مِقَابِلہ کرنا۔ اَعْلَى السُّنْبِي : گراں قِیْمَتِ پَر خَرِیدِ نَا..... السِّغَرُ : بھادُ گراں کرنا..... السِّكْرَمُ : اگور سے پتے اتار دینا۔ اَعْلَى وَتَغَالَى وَاغْلُوْلَى. الشَّجَرُ : دَرِخْتِ کَا تَہْتَانِ ہونا اور بڑا ہونا۔ اِغْتَلَى. البَحْرُ : اَوْتِ کَا تِيز چلنا۔ اِسْتَقْلَى. السُّنْبِي : گراں پانا۔ السَّغَالِي : نَا۔ جِ غِلَاءٌ مَوْنُثٌ غَالِيَةٌ جِ غَالِيَاتٌ وَغَوَالٍ. الْغَالِي : مَوْنُثُ گوشت۔ کہا جاتا ہے "بُعْتُ بِالْغَالِي وَبِالْفَالِي : یعنی میں نے گراں بیجا۔ الْغِلَاءُ : بَس۔ قِیْمَتِ کِی زِیَادَتِ۔ اِیکِ قِیْمَتِ کِی چھوٹی پھیل۔ جِ اَعْلِيَّةٌ. السُّغْلُوَاءُ وَالسُّغْلُوَاءُ : حُد سے گزرنا..... وَالْغُلُوَانُ : آغا زِ جَوَانِی وَنِشَا طِ جَوَانِی۔ کہا جاتا ہے "حِيفُضٌ مِنْ غُلُوَانِك" یعنی اپنی سرکشی اور حد سے گزرنے کو پست کر..... و"فَعَلَهُ فِى غُلُوَاءِ شَبَابِهِ" اس نے اُس کو اپنے آغا زِ جَوَانِی میں کیا۔ السُّغْلُوَةُ : اِیکِ تِيز پَر تَابِ جِ غُلُوَاتِ وَغِلَاءِ. السُّغْلَى وَالسُّغْلَاءُ : تِيزِ جَوَانِہَا تَکِ پھینکا جائے۔ جِ مَقَالِ. عَلِي يَغْلِي غَلِيًا وَغَلِيَانًا : جوش مارتا۔ عَلِي تَغْلِيَةٌ وَاعْلَى اِغْلَاءً. الْقِدْرُ : ہانڈی کُو جوش دینا۔ السَّرْجُلُ : دُور سے اِشارہ کر کے سلام کرنا۔ تَغْلَى. غَالِيہ (مَرکَبِ خُوشبو) لگانا۔ الْغَالِيَةُ : مَرکَبِ خُوشبو۔ جِ غَوَالِ. اَلْغُلْبُونُ : نُوْیِ وَاللَا چھوٹا برتن جس میں شراب گرم کی جاتی ہے۔ غَمْمَةٌ (ن) : غَمًّا : ڈھانپ لینا۔ غَمْلِيْنُ : کرنا۔ غَمُّ الْيَوْمِ : تِيز گرمی والا ہونا..... السُّقْمَرُ

السُّجُومُ : سِتاروں کی روشنی کو ماند کر دینا..... السُّنْبِي السُّنْبِي : غَالِب ہونا۔ غَمُّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ : پُوشیدہ ہونا۔ مُشْتَبِه ہونا۔ غَمُّ (س) : غَمَمًا : لمبے پال والا ہونا۔ صفت (اَعْم) مَوْنُثُ غَمَمًا جِ غَمُّ. اَعْمَةٌ : مَمْلُکِنُ کرنا۔ اَعْمُ الْيَوْمِ : بَخْتِ گرمی والا ہونا۔ اَعْمَتِ السَّمَاءُ : ہادل والا ہونا اور کہا جاتا ہے "مَا اَعْمَكَ لِي وَعَلَى وَالْحَى" کس چیز نے تم کو میرے لئے مَمْلُکِنُ کیا۔ غَامَةٌ مَغَامَةٌ : اِیکِ دُور سے کو مَمْلُکِنُ کیا۔ تَعَامٌ : بَحْکَلَفِ غَمِ ظَاہِر کرنا۔ اِنْعَمٌ : ڈُھک جانا..... وَاِنْعَمٌ : مَمْلُکِنُ ہونا۔ اِنْعَمُ النَّبَاتُ : نِہَاتِ تِ کَا لِسَا ہونا اور بہت ہونا۔ اِنْعَمُ الرُّجُلُ : پُوشیدہ ہو جانا۔ الْغَامُ : نَا۔ يَوْمٌ غَامٌ : گرم دن۔ غم کا دن۔ الْغَمُّ : غَم۔ حَزَن۔ اِنْدُوہ۔ کَرْب۔ جِ غَمُومُ يَوْمٌ غَمٌّ : گرم دن۔ غم کا دن۔ الْغَمَّةُ : غَم۔ حَزَن۔ مَلَال۔ حِیرت۔ جِ غَمَمِ کہا جاتا ہے "هُوَ فِى غَمَّةٍ" یعنی وہ حِیرت میں ہے۔ لَيْلَةٌ (غَمٌّ وَغَمَّةٌ) : گرم رات۔ غم کی رات۔ الْاَعْمُ. مِنْ السَّجَابِ : گھرا ہوا ہادل۔ لَيْلَةٌ غَمَّاءُ : ہادل والی رات۔ الْغَمِّي : بَخْتِ تَارِکِی۔ گرد آلودگی۔ الْغَمَامُ : ہادل۔ اِیکِ کُڑے کو (غَمَامَةٌ) کہتے ہیں جِ غَمَامِيْمِ کہا جاتا ہے ہو یفتر عن مثلِ حَبِ الْغَمَامِ : وہ او لے جیسے دانوں سے بنتا ہے۔ الْغَمَامُ : زکام۔ الْمَغْمُومُ : زکام زدہ۔ الْغَمَامَةُ : مَنہ پَر کَا چھینکا اور کبھی اس کے لئے بھی بولتے ہیں جو مھوڑے کی دونوں آنکھوں کے ادھر ادھر لگا دیتے ہیں تاکہ سوائے سامنے کے نہ دیکھ سکے جِ غَمَامِيْمِ. الْغَمَّاءُ وَالْغَمِّي : غَم۔ حَزَن۔ مِصِيبَتِ۔ کہا جاتا ہے "يَسْلُكُ يَكْشِفُ الْغَمَّاءُ" تمہیں جیسا آدمی مِصِيبَتِ کو دور کر سکتا ہے۔ الْغَمِيْمُ : گرم کیا ہوا گاڑھا دووہ۔

الْفُومُ : جِج غَم۔ چھوٹے مَمْلُکِنُ سِتارے۔ غَمِيْمٌ (مَغْمِيْمٌ) : بہت پانی والا ہادل۔ اَرْضٌ مَغْمِيَّةٌ : بہت پید اور اوالی زمین۔ غَمَمَتُهُ (ض) : غَمَمًا. الطَّغَامُ : کھانے کا دل پر تھیل ہونا اور مد ہوش کر دینا..... هُ فِى الْمَاءِ : پانی میں ڈوبانا..... السُّنْبِي : ڈھانکنا۔ غَمِيْتٌ (س) : غَمَمًا : کھانا دل پر تھیل ہونے سے مد ہوش سا ہونا۔ غَمَمِيْحٌ (ض) : غَمَمِيْحًا وَغَمَمِيْحٌ (س) : غَمَمِيْحًا. الْمَاءُ : لگا تا گھونٹ سے پانی پینا۔ الْغَمَمِيْحَةُ وَالْغَمَمِيْحَةُ : گھونٹ جِ غَمَمِيْحٌ. غَمَمَدٌ (ن ض) : غَمَمَدًا. السَّيْفُ : تلوار کو میان میں کرنا..... السُّنْبِي : چھپانا..... الْأَمْرُ : درست کرنا۔ غَمِيْدَتٌ (س) : غَمَمَدًا. الْبِشْرُ : بکنو میں کا زیادہ پانی والا ہونا۔ کم پانی والا ہونا۔ غَمِيْدَةُ اللَّيْلِ : رات کا تاریک ہونا۔ اِنْعَمَدُ. السَّيْفُ : تلوار کو میان میں کرنا۔ الْاَعْمِيَاءُ : بَعْضِ کُو بَعْضِ میں داخل کرنا۔ غَمَمَدَةٌ وَتَغَمَمَدَةٌ : مِیُوبِ چھپا لینا۔ تَغَمَمَدَةُ اللّٰهُ بِرُحْمِيْمِهِ : رَحْمَتِ میں چھپا لینا۔ رَحْمَتِ کے سایہ میں رکھنا۔ تَغَمَمَدَةُ الْاِنْسَاءِ : برتن کو بھرننا۔ اِنْعَمَدُ. اللَّيْلِ : رات میں داخل ہونا۔ الْغَمَمَدُ : تلوار کی نیام جِ غَمُودُ وَاِنْعَمَادُ. سَفِيْنَةٌ (غَامِدَةٌ وَغَامِدَةٌ) : بھری ہوئی کشتی جِ غَوَامِدَةٌ. بَشْرٌ (غَامِيْدَةٌ وَغَامِيْدَةٌ) : مٹی سے ڈھکا ہوا کتواں۔ مَغَمَدُ. السَّيْفُ : تلوار کی میان جِ مَغَامِيْدُ. غَمَمَرَةٌ (ن) : غَمَمَرًا. الْمَاءُ : پانی کا بلند ہو کر ڈھانکنا۔ کہا جاتا ہے "غَمَمَرٌ فَلَانَا بِفَضْلِهِ" اس نے فلاں کو اپنے فضل و احسان سے ڈھانپ لیا۔ غَمَمَرٌ (س) : غَمَمَرًا وَغَمَمَرًا. صُدْرَةٌ عَلِي : کیند سے پھر جانا۔ غَمَمَرَتْ يَدُهُ : گوشت کی چکناٹ لگانا۔

غَمْرٌ (ک) غَمَارَةٌ وَغُمُورَةٌ الْمَاءُ :
 بہت ہونا..... الرَّجُلُ : جاہل ہونا۔
 غَمِيرٌ عَلَيْهِ : بے ہوش طاری ہو جانا۔
 غَمِيرٌ وَجْهَهُ : منہ پر زعفران ملنا.....
 بِالشَّيْءِ : پھینکنا یا دریغ کرنا۔
 أَعْمُرَةٌ الْحَرُّ : گرمی کم ہو جانے کی وجہ سے
 سفر پر جرات دلانا۔
 غَامِرَةٌ مَغَامِرَةٌ : مقاتلہ کرنا اور موت کی پروا
 نہ کرنا۔
 اِغْتَمَرُ وَتَغَمَّرُ : منہ پر زعفران ملنا۔
 اِغْتَمِرَ وَانْغَمَرَ : پانی میں ڈوبنا۔ اِنْغَمَرَ
 الْمَاءُ الشَّيْءُ : ڈوبانا۔
 الْغَمْرُ : بھس۔ بہت پانی۔ سمندر کا بڑا حصہ۔
 كَالْمِ كَيْزٍ : کریم وسیع الاخلاق ج غَمَارٌ
 وَغُمُورٌ : کہا جاتا ہے "نُوبٌ غَمْرٌ" کشادہ
 کپڑا "وَلَيْلٌ غَمْرٌ" بہت تاریک رات
 وَ"غَمْرُ النَّاسِ" لوگوں کی جماعت "هُوَ
 غَمْرُ الرِّدَاءِ" وہ بہت بھلائی کرنے والا سخی
 ہے۔
 الْغَمْرُ وَالْغَمْرُ وَالْغَمْرُ : نا تجربہ کار جاہل۔
 جِ اَغْمَارٌ الْغَمْرُ : کینہ۔ پیاس۔ الْغَمْرُ
 : زعفران منہ وغیرہ پر لگانے کی ایک چیز ہے
 جس کو ورس سے بناتے ہیں۔
 الْغَمْرُ : بھس۔ نا تجربہ کار۔ جاہل۔ کینہ۔
 گوشت کی چکنائٹ۔ جِ غَمُورٌ. غَمْرُ
 النَّاسِ : لوگوں کی جماعت۔
 الْغَمْرُ : چھوٹا پیالہ جِ غَمَارٌ وَغَمَارٌ.
 الْغَمِيرُ : بہت چربی والا۔ چکنا۔
 غَمْرَةٌ. الشَّيْءُ : سختی۔ جِ غَمَرَاتٌ وَغَمَارٌ
 وَغَمِيرٌ. غَمَرَاتُ السَّمَوَاتِ : موت کی
 سختیاں۔
 الْغَمْرَةُ : زعفران۔
 الْغَمَارَةُ : جہالت و بے خبری۔
 وَالْغَمَارُ وَالْغَمَارُ وَالْغَمَارَةُ : لوگوں کی
 جماعت۔ مختلف لوگوں کی جماعت۔
 الْغَامِيرُ : قا۔ آجاڑ زمین۔ السَّمَالُ الْغَامِيرُ :
 بہت مال۔

الغَمِيرُ : بہت پانی۔
 الْمُغْتَمِرُ : مدہوش۔
 الْمُغْمُورُ : مفتح۔ گمناں غیر مشہور و مقبور۔
 الْغَمَارِيْدُ : سانپ کی چھتری۔
 غَمَزَ (ض) غَمَزًا : ٹٹولنا..... الْقِنَاةُ : تیزہ
 کو آزمائش کے لئے دانٹوں سے چبانا۔
 ه بِالْعَيْنِ او الْجَفْنِ او الْحَاجِبِ : آنکھ یا
 پلک یا ابرو سے اشارہ کرنا۔ غَمَزَ عَيْنَهُ او
 ذَاؤُهُ : عیب یا مرض کا ظاہر ہونا۔ غَمَزَتِ
 الذَّابِيَةُ : جانور کا لنگڑا ہونا۔ غَمَزَ بِالرَّجُلِ
 وَعَلَيْهِ : طعنہ دینا اور برائی کی کوشش کرنا۔
 غَامَزَهُ مَغَامَزَةٌ : ایک دوسرے کو عیب لگانا۔
 اَغْمَزَ. فِيهِ : عیب لگانا۔ تحقیر ثابت کرنا۔ گھٹیا
 مال جمع کرنا۔
 تَغَامَزَ. الْقَوْمُ : آنکھوں سے ایک دوسرے کو
 اشارہ کرنا۔
 اِغْتَمَزَ : طعنہ دینا۔ الْكَلِمَةُ : کزور بھنا۔
 الْغَمَزُ : گھٹیا مال۔ دہلے پتلے جانور۔ کزور
 مرد جِ غَمَزُوْ اَغْمَازُ : کہا جاتا ہے "هُوَ رَجُلٌ
 غَمَزٌ مِنْ قَوْمِ غَمَزٍ او اَغْمَازٌ".
 الْغَامِزُ : قا۔ تیزے کی آزمائش کرنے والا۔
 الْغَمَازُ : اسم مبالغہ۔ مَوْنَتُ غَمَازَةٍ.
 الْغَمِيْزُ : کھلا ہوا عیب۔
 السَّمْفَمَزُ : عیب طعنہ یا طمع کی جگہ۔ جِ
 مَغَامِزُ.
 الْغَمِيْزَةُ : بمعنی مَغْمَزُ : عقل یا عمل کی کزوری۔
 کہا جاتا ہے "مَغَامِيْزُهُ غَمِيْزَةٌ او مَغْمَزٌ" اس
 میں کوئی نمایاں عیب نہیں۔
 الْمَغْمُورُ : مفتح۔ متبہم الغموز : اوشی جب
 تک اس کے گویاں پر ہاتھ نہ ڈالیں۔ مَوْنَاتِي
 وَدِبْلَايِنِ سے ظاہر نہ ہو۔
 غَمَسَ (ض) غَمَسًا. الشَّيْءُ فِي الْمَاءِ :
 پانی میں ڈوبنا غوطہ دینا۔ السِّنَانُ فِي صَدْرِهِ
 : بھالے کو سینہ میں داخل کرنا۔ گھسانا۔
 غَمُوسًا. النُّجْمُ : ستارے کا ڈوبنا۔ غروب
 ہونا۔
 غَمَسَهُ : سختی سے ڈوبنا۔ غَمَسَ الشَّرْبُ : کم

چینا..... الْاِبِلُ : اونٹ کو پلانا پھر واپس جانا۔
 غَامَسَ مَغَامَسَةً : خطرات میں کود پڑنا۔
 فَلَانَا : ایک دوسرے کو پانی میں غوطہ
 دینا۔
 فِي الْأَمْرِ : جلد بازی کرنا۔
 اِنْغَمَسَ وَاغْتَمَسَ فِي الْمَاءِ : غوطہ لگانا۔
 فِي الشَّيْءِ : داخل ہونا۔ گھسا۔
 الْغَمُوسُ : مصیبت میں ڈالنے والا معاملہ۔
 مِنَ السَّرِيحَالِ : بہادر۔ کہا جاتا ہے
 "طَعْنَةُ غَمُوسٍ" پار ہو جانے والی تیزہ کی
 مار "السَّمِيْنُ الْغَمُوسُ" جان بوجھ کر جھوٹی
 قسم جِ غَمُوسٌ.
 الْغَمِيْسُ : تار کی لیلِ غَمِيْسُ : تاریک
 رات۔ وَالْغَمِيْسَةُ : جھاڑی۔ درختوں
 کا جھنڈ۔ ہر وہ گھبان چیز جس میں چھپا جا
 سکے۔
 الْغَمَاسَةُ : مرغابی جس کی بہت قسمیں ہوتی
 ہیں۔ جِ غَمَاسٌ. طَعْنَةُ غَمَاسَةٍ : کشادہ
 زخم۔
 غَمِيْشٌ (س) غَمَشًا : چندھا ہونا۔ کزور
 نظر ہونا۔ سِلَانٌ اِتَّكٌ کی وجہ سے چندھا
 ہوا۔ صفت (اَغْمَشُ)
 غَمَصَةٌ (ض) وَغَمِصَةٌ (س) غَمَصًا :
 حقارت کرنا۔ غَمِصَ النِّعْمَةَ : نعمت کی
 ناشکری کرنا۔
 عَلَيْهِ : جھوٹا بولنا..... عَلَيْهِ كَلَامُهُ : عیب
 لگانا۔
 غَمِصٌ (س) غَمَصًا : آنکھ کا کچھڑ والی
 ہونا۔
 غَمِصَتْ عَيْنُهُ : کچھڑ بہنا۔ صفت (اَغْمِصُ)
 اور آنکھ کو (غَمِصَاءُ) کہتے ہیں جمع غَمِصُ.
 اِغْتَمَصَهُ : تحقیر جاننا۔ حقارت کرنا۔ جھوٹا
 بھنا۔
 الْغَمِصُ : بھس۔ آنکھ کی کچھڑ۔
 رَجُلٌ (غَمِصٌ) عَيْبٌ لِّكَانَةِ وَاللَّـ
 الْغَمُوسُ : جھوٹا۔ يَسْمِيْنُ غَمُوسٌ : جھوٹی
 قسم۔

رَجُلٌ (مَغْمُوضٌ) عَلَيْهِ: جس کے حسب یا دین میں عیب لگایا جائے۔
 غَمَضَ (ن) وَغَمَضَ (ك) غَمُوضًا الْكَلَامُ: کلام کا دقت ہونا۔
 غَمَضَ (ن ض) غَمَضًا السَّيْفُ فِي اللَّحْمِ: تلوار کا گوشت میں گھسنا۔ الرُّجُلُ فِي الْأَرْضِ: سفر کرنا۔ غَمَضَهُ فِي الْبَيْعِ: خرید و فروخت میں نرمی برتنا۔
 غَمِضَ (س) غَمُوضَةً وَغَمَاضَةً الْمَكَانُ: پست ہونا۔
 غَمِضَ وَأَغْمَضَ عَيْنَهُ: آنکھ بند کرنا۔
 غَمَضَهُ فِي الْبَيْعِ: خرید و فروخت میں نرمی برتنا۔ غَمِضَ الْكَلَامَ: مبہم گفتگو کرنا۔ کہا جاتا ہے "غَمِضَ عَنِ الْأَسَاءَةِ" چشم پوشی کرنا۔
 إِغْمَضَتِ الْعَيْنُ فَلَانًا: حقارت کرنا۔
 أَغْمَضَ عَنِ الشَّيْءِ: درگزر کرنا۔ أَغْمَضَ عَلَى كَذَا: برداشت کرنا اور راضی ہونا۔
 أَغْمَضَ فِي السَّلْعَةِ: گھسیا ہونے کی وجہ سے قیمت کم کرنا۔ خَدَّ السَّيْفِ: تلوار کی دھار پارک کرنا۔ فَلَانًا: کسی سے دوڑ میں آگے نکل جانا بعد اس کے کہ پہلے وہ آگے نکل چکا تھا۔
 اِنْمَضَ: طَرَفَهُ: آنکھ کا بند ہونا۔
 اِغْمَضَ: التَّرْقِي: بکلی کی چمک بند ہونا۔
 الرَّجُلُ عَنِ الْأَسَاءَةِ: چشم پوشی کرنا۔ کہا جاتا ہے "مَا اِغْمَضَتْ عَيْنَاهُ" یعنی اس کی آنکھیں نہیں سوئیں۔
 الغمض: مضم۔ پست زمین ج غموض و اغماض: کہا جاتا ہے "فَلَانٌ ذُو غَمَضٍ": فلاں ذلیل و گناہم ہے۔
 الغمض والغماض والغماض والغماض: آنکھ کا بند ہونا۔ نیند۔ کہا جاتا ہے "مَا اِكْتَحَلْتُ عَيْنِي غَمُضًا او غَمَاضًا او اِغْمَاضًا او تَغْمِاضًا" یعنی میں نہیں سویا۔
 الغماض: قا۔ پست زمین ج غمواض: گناہم۔ ذلیل۔ اَمْرٌ غَامِضٌ: مبہم معاملہ۔

الغَلَخَالُ الْغَامِضُ: پازیب جو پتلی کو بھر دے۔ الغماض مِنَ الْكُفُوبِ وَالسُّوقِ: موٹا تختہ یا موٹی پتلی۔ غَمَاضِ الْإِبِلِ: چھوٹے اونٹ۔
 الغامضة: مؤنث غامض ج غامضات وَغَمَاضِ: الذَّارِ الْغَامِضَةُ: مکان جو نرک سے علیحدہ ہو۔
 الغمضة: عیب۔
 الغموضة "مَا فِي هَذَا الْأَمْرِ غَمُوضَةٌ" یعنی اس معاملہ میں کوئی عیب نہیں۔
 الْمُغْمِضَاتُ: گناہ جو جان بوجھ کر آدمی کرے۔ مغمضات اللَّيْلِ: رات کی تاریکیاں۔
 غَمَطَهُ (ض) وَغَمِطَهُ (س) غَمَطًا: حقارت کرنا۔ حقیر جانا۔ غَمَطَ السَّعْمَةَ: نعمت کی ناشکری کرنا۔ ناقدری کرنا۔
 الْحَقِّ: حق کا انکار کرنا۔ السَّاءُ: پانی کا زور سے گھونٹ بھرنا۔ الذَّبِيحَةُ: ذبح کرنا۔
 أَغْمَطَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ: ہمیشہ ہونا۔
 غَمَطَ مَغَامَطَةً فِي الشَّرْبِ: لگا تار گھونٹ لگانا۔
 تَغَمَطَ عَلَيْهِ الشَّرَابُ: مٹی سے ڈھا لگنا۔ یہاں تک کہ مار ڈالنا۔
 اِغْمَطَ: دوڑ میں ہارنے کے بعد آگے بڑھ جانا۔ ه بِالْكَلامِ: غالب ہونا۔ اِغْمَطَ الشَّيْءُ: نکل جانا اور پھر کوئی نشان نہ ملنا۔
 الغمط: مضم۔ پست زمین۔
 غَمَمَ غَمَمَةً: تپل کا خوف کے وقت ڈکارنا۔ الْاِبْطَالُ: بہادروں کا مقابلہ کے وقت شور مچانا۔ الْكَلَامُ: غیر واضح کلام بولنا۔ السَّبِي: بچے کا دودھ کے لئے پستان پر رونا۔
 تَغَمَّمَ: الرَّجُلُ: غیر واضح بولنا۔ الْغَرِيبُ تَحْتَ الْمَاءِ: ڈوبے ہوئے پانی کے نیچے بولنا۔
 الغممة: مضم۔ خوف کے وقت کی آواز۔

..... مقاتلہ کے وقت کی آواز۔ غیر واضح کلام ج غمماغم۔
 غَمِيقٌ (س ن) وَغَمِيقٌ (ك) غَمَقًا الْمَكَانُ: نمناک ہونا۔ سِلن والا ہونا۔
 النَّبَاتُ: نمناکی کی وجہ سے خراب ہونا۔ صفت (..... غَمِيقٌ) مؤنث (غَمَقَةٌ)
 غَمِيقٌ: البعيرُ: اونٹ کا غمقہ کی بیماری میں مبتلا ہونا۔
 الغمقة: ایک بیماری جو پیٹھ میں ہوتی ہے۔
 الْمَغْمُوقُ: پیٹھ کی بیماری والا۔
 غَمَلٌ (ن) غَمَلًا الشَّيْءُ: چھپانا۔
 فَلَانًا: پند کے لئے ڈھا لگنا۔ الْبُشْرُ: گدڑ کھجور کی پال دیا۔ الْعَنْبُ فِي الزَّنْبِيلِ: انگور کو زنبیل میں تہ تہ رکھنا۔ الشَّيْءُ: درست کرنا۔
 وَتَغَمَّلَ النَّبَاتُ: ایک دوسرے پر چڑھنا۔ الشَّيْءُ: وسیع ہونا۔
 غَمِلَ (ض) غَمَلًا: پیچیدہ ہو کر خراب و بدبودار ہونا۔ السُّجْرُخُ: پٹی کی وجہ سے خراب ہونا۔ صفت (غَمِلٌ)
 اِغْمَلُ: الْاَهَابُ: کچے چمڑے کا چھوڑ دینا۔ یہاں تک کہ وہ بگڑ جائے۔
 اِسْغَمَلُ: الْاَدِيمُ: چمڑے کا خراب ہونا۔ صفت (غَمِلٌ)
 الْغَمِيلُ: مِنَ النَّضِيِّ (ایک قسم کی گھاس) پیچیدہ آگے ہوئی۔ مِّنَ الْأَرْضِ: پست زمین ج غمیلی۔
 الْمَغْمُولُ: مفتح۔ گناہم۔
 الْغَمُولُ: درختوں سے ڈھکی ہوئی وادی ج غمائل۔
 الْغَمْلُجُ وَالغَمْلُجُ وَالغَمْلُجُ وَالغَمْلُجُ وَالغَمْلُجُ: غیر مستقل جو ایک حالت پر نہ رہے۔ مؤنث غَمْلُجٌ وَغَمْلُجٌ غَمْلُوجَةٌ وَغَمْلُوجَةٌ۔
 الْغَمْلُجُ وَالغَمْلُجُ: موٹا لہبا۔ الْمَغْمُولُجُ: سایہ میں آگے ہوئی شاخ ج غمالمج۔
 غَمَنَ (ن) غَمَنًا الشَّيْءُ: چھپانا۔

البس: گدر مجھور کی پال دہاتا..... فلاتسا :
پینلانے کے لئے ڈھانکنا۔

غَمِنَ وَانْغَمَنَ لِمَى الْأَرْضِ: غامب کیا
جاتا۔ غامب ہوتا۔

الغَمَّةُ: ایک قسم کا اُبتنا۔

غَمًا يَغْمُو غَمًّا: البَيْتُ: بکڑی اور مٹی
سے چھت پائنا۔

الغَمَّا: مکان کی چھت یا چھت کی بکڑی مٹی
وغیرہ۔ اس کا تشبیہ غَمَّوَانِ ج غَمِيَّةِ
وَأَغْمَاءِ۔

غَمِي (ض) غَمِيًّا وَغَمِي. البَيْتُ: بمعنی
غَمًّا يَغْمُو۔

غَمِيٌّ وَأَغْمَى. النُّومُ: تمام دن ابر رہنا۔
غَمِيٌّ وَأَغْمَى عَلَى الْمَرِيضِ: غمّی طاری
ہوتا۔ صفت (مَغْمِيٌّ وَمُغْمِيٌّ) عَلَيْهِ۔

الغَمِيُّ: گھوڑے کو پینلانے والی پوشش۔
کہا جاتا ہے "زَجُلٌ غَمِيٌّ" یعنی بے ہوش
مرد اور حج کے لئے کہا جاتا ہے "رَجَالٌ
غَمِيٌّ وَأَغْمَاءُ"۔

..... وَالْبِغْمَاءُ: مکان کی چھت جِ أَغْمَاءِ
وَأَغْمِيَّةٌ۔

غَنَ (س) غَنًا. النَّخْلُ: درخت خرما کا
پکنا۔

..... السَّوَادِي: وادی کا زیادہ درخت والی
ہونا۔ وَغَنًا وَغَنَةً: گنلتا نا۔

غَنَ. الرُّوْحُ: زیادہ درخت والا بنانا۔
أَغْنَى. الشَّجَرُ: درخت کا پکنا..... السَّوَادِي:

وادی کا زیادہ درخت والی ہونا..... الرُّوْحُ
بَارِعٌ كَأَسْرَبْرُ كَرْنَا..... السَّوَادِي: کسی کا
بھینسانا..... الرَّجُلُ: نرم آواز نکالنا۔

الغَنَانُ: کسی کی بھینسانا ہٹ۔
الغَنَةُ: گنلتا ہٹ۔

الْأَغْنُ: گنلتانے والا۔ حَرْفٌ أَغْنَى: عندہ کا
حرف۔ السَّوَادِي الْأَغْنُ: زیادہ گھاس اور
درختوں والی وادی۔ مَوْتٌ غَنَاءُ۔

الْقَرْوَةُ الْغَنَاءُ: آباد گاؤں۔
غَيْثٌ (س) غَنًّا. الرَّجُلُ: سانس لے کر

چینا۔ غَيْثٌ نَفْسُهُ: مثلانا۔

تَغَيَّنَهُ. الشَّيْءُ: جو حمل ہوتا۔ بھاری ہوتا۔
چمٹنا۔

الغَنَثَرُ: بے وقوف۔
غَبَجَ (س) غَبَجًا وَتَغَبَجَ: ناز کرنا۔ صفت
(غَبَجٌ وَغَبَجٌ) مَوْتٌ غَبِجَةٌ وَغَبِجٌ

الغَبَجُ وَغَبَجٌ وَغَبَجٌ: نازخروہ۔
الغَبَجُ: کاجل جس کو عورتیں گوندنے میں
استعمال کرتی ہیں۔

الْأَغْنُوجَةُ: نازخروہ کرنے کی چیز۔ جِ
أَغْنِجٌ۔

السُّنْدَرُ وَالغُنْدُرُ. مِنَ الْغُلْمَانِ: موٹا تازہ
لڑکا۔

تَغَدَّرَتِ الْمَرْأَةُ: لکیر سے چلنا۔
الغَايِدُ: نازخروہ۔

غَبِيصٌ (س) غَبِيصًا: تنگ دل ہونا۔
الْغَبَاقِلِيُّونَ: زرد اور سفید پھول اس کا بارہنا
کر قبروں پر ڈالتے ہیں۔

غَطَّ (ض) غَطًّا: قریب ہلاکت ہونا۔
..... الْأَمْسُ فُلَاتَا: دشوار ہونا۔ غَطَّظَهُ
وَأَغَطَّظَهُ: غیظ و غضب سے بھر دینا۔

غَطَّظَهُ: ایک دوسرے کو مشقت میں مبتلا کر
دینا۔

الغَسَطُ وَالغَنَطُ وَالغَنَاطُ وَالغِنَاطُ: لازمی
رہنم۔

المَغْنُوطُ: مفتح۔ غمزوہ۔
غَنِمَ (س) غَنِمًا. الشَّيْءُ: مفت حاصل
کرنا۔

غَنِمًا وَغَنِمًا وَغَنِمًا وَغَنِمًا:
غنیمت حاصل کرنا۔

غَنِمَةً: کھڈا۔ حصص سے زائد دینا۔
أَغْنَمَهُ. الشَّيْءُ: غنیمت حاصل کرنا۔

تَغَنَّمَ وَأَغْتَنَّمَ. الشَّيْءُ: غنیمت
سمجھنا۔ تَغَنَّمَ فُلَانٌ: بکریاں جمع کرنا جیسے
تَأْتَلُ: اونٹ جمع کرنا۔

السَّيْنِمَةُ: مال جو جنگ میں حاصل ہو۔
کمانی۔ جِ غَنَائِمٍ: کہا جاتا ہے "السَّيْنِمَةُ

بَارِدَةٌ" یعنی پاک کمانی یا بلا مشقت کی کمانی۔

الغَنَمُ: بمعنی غنیمت۔ غَنُومٌ۔
الغَنِيمُ: بمعنی غنیمت۔

الغَنَمُ: مصل۔ بکریاں اور اس کے لئے اس
لفظ سے واحد نہیں واحد کے لئے لفظ (شاة)

ہے جِ أَغْنَامٌ وَغَنُومٌ وَأَغْنَامٌ: کہا جاتا ہے
"غَنَمٌ مُغْنِمَةٌ وَمُغْنِمَةٌ" یعنی بہت بکریاں۔

الغَنَامُ: بہت بکریوں والا۔ بکریوں کا چرواہا۔
بہت مال غنیمت حاصل کرنے والا۔

المَغْنَمُ: غنیمت۔ مغنایم: کہا جاتا ہے "مَغْنَمٌ
بَارِدٌ" یعنی پاک غنیمت۔ کہا جاتا ہے

(غَنَامَاكَ) أَنْ تَفْعَلَ كَهَذَا: تمہاری کوشش
کی انتہا یہ ہے کہ تم ایسا کرو۔

الغُسُوةُ: بے نیازی۔ کہا جاتا ہے (لَهُ عِنْدَهُ
غُسُوةٌ) اس کو اس سے بے نیازی ہے۔

غَبِيٌّ (س) غَبِيًّا. الرَّجُلُ: نکاح کرنا۔
غَبِيَّتُ الْمَرْأَةِ: حسن و جمال کی وجہ سے
آرائش سے بے نیاز ہونا۔

غَبِيٌّ وَغَبِيٌّ: بالِمَكَانِ: اقامت کرنا۔
صفت (غَانٌ) کہا جاتا ہے غَسُوَ بَدِيَارِهِمْ ثُمَّ
فَسُوا: اپنے ممالک میں اقامت کی پھر فنا ہو
گئے۔ فُلَانٌ: زندہ رہنا۔ زندگی بسر کرنا۔

غَبِيٌّ. غَنَاءٌ وَغُنْيَانًا: مالدار ہونا۔ بِالشَّيْءِ
عَنْ غَيْرِهِ: اکتفا کرنا۔

غَبِيٌّ تَغْيِيَةً: آواز کرنا..... الشَّيْءُ
وَبِالشَّيْءِ: گانا..... بِالْمَرْأَةِ: عشق بازی
کرنا۔ الشَّيْءُ بِفُلَانٍ: کسی کی مدح کرنا یا
جو کرنا۔ غَنَاءُ اللَّهِ: مال دار کر دینا۔

أَغْنَى إِغْنَاءً. الرَّجُلُ: مالدار کر دینا۔ غَنَةً:
کافی ہونا۔ کہا جاتا ہے "أَغْنَى عَنْهُ غَنَاءٌ
فُلَانٌ وَمَغْنَاهُ وَمَغْنَاهُ مَغْنَاءٌ وَمَغْنَاءٌ" یعنی
تمام مقام ہوا۔ إِغْنَى عَنْهُ كَهَذَا: دور کر دینا
اور کہا جاتا ہے "مَا يَغْنِي عَنْكَ هَذَا وَمَا
أَغْنِي هَذَا" یعنی نافع نہیں ہے۔

تَغْنَى تَغْيِيًا: مالدار ہونا..... بِالْمَرْأَةِ: عورت
سے عشق بازی کرنا..... بِالشَّيْءِ: شعر گانا
..... بِفُلَانٍ: کسی کی مدح یا جو کرنا۔ تَغْنَتْ

الجمرة: عورت کا نکاح کرنا۔

اِسْتَعْنَى: بے نیاز ہونا..... عَنْهُ: بہ: اکتفا کرنا..... اَللّٰهُ: اللہ سے بے نیاز ہونے کی دعا کرنا۔

الغنى والغنية والغنيان: اکتفا۔ تو انگری۔ مالدار کی۔ کہا جاتا ہے "مَسَّالَهُ عَنْهُ غِنَى وَغَنِيَةٌ وَغَنِيَانٌ" یعنی اس کے لئے اس سے چارہ نہیں۔

الغنى والغناء: اکتفا تو انگری۔ کہا جاتا ہے "لَا غِنَى عَنْهُ" یعنی ضروری ہے۔

الغناء: عَنِ الصَّوْتِ: گیت۔ سُر۔

الْأَغْنِيَّةُ وَالْأَغْنِيَّةُ وَالْأَغْنِيَّةُ وَالْأَغْنِيَّةُ: گیت۔ سُر۔ راگ۔ جِ اَغْنِيَّةٌ وَأَغْنَانٌ.

الغنى: اکتفا کرنے والا۔ تو انگری۔ مالدار۔ کہا جاتا ہے "هُوَ غَنِيٌّ عَنْهُ" یعنی وہ اس سے بے

نیاز ہے جِ اَغْنِيَاءٌ.

الغنى: فَاغْنَى: کہا جاتا ہے "زَجَلَّ غَانٌ عَنْ كَذَا" یعنی فلاں چیز سے بے نیاز ہے۔

الغنيّة: مَوْتٌ غَنَانِيٌّ: وہ عورت جو حسن و جمال کی وجہ سے آرائش سے بے نیاز ہو۔

نکاح کرنے والی۔ جِ غَنِيَاتٌ وَغَوَانٌ.

الْمَغْنَى: منزل۔ جِ مَغْنَانٌ کہا جاتا ہے "خَرَبْتُ مَبَانِيَهُمْ وَخَلْتُ مَغْنَانِيَهُمْ" یعنی ان کا شرف جاتا رہا اور ان کے مکان خالی ہو گئے۔ "وَمَسَّالَهُ عَنْهُ مَغْنَى" یعنی اس کے لئے اس سے چارہ نہیں۔

غَيْبٌ (س) غَيْبًا وَأَغْيَبْتُ عَنْهُ: غافل ہونا۔ بھولنا۔

اِغْيَبْتُ: تاریکی میں چلنا۔

الغَيْبُ: مَصٌّ: کہا جاتا ہے "أَصَابَ الصَّيْدَ غَيْبًا" یعنی شکار پر غفلت میں بلا قصد کے پہنچ گیا۔ "فَعَلَّهُ غَيْبًا" اس کو بلا قصد کیا۔

الغَيْبُ: تاریکی۔ بہت تاریک رات۔ بہت سیاہ گھوڑا۔ غافل بے وقوف اور کمزور جِ غَيْبَاهِبٌ.

الغَيْبَانُ: تاریکی۔ پیٹ۔

الغَيْبَةُ: مَوْتٌ غَيْبَتٌ: لڑائی کا شور۔

غَاثَهُ بِغَوْثِهِ غَوْثًا وَأَغَاثَهُ إِغَاثَةً وَمَغْوُوثَةٌ: اعانت کرنا۔ مدد کرنا۔

غَوْتٌ. الرُّجُلُ: واغوثاہ: کہنا۔ اِسْتَعَاثَ الرَّجُلُ وَبِهِ: مدد طلب کرنا۔

الغَوْتُ وَالغَوَاتُ وَالغَوَاتُ: مدد۔ الغَوْتُ وَالغَيْبَاتُ وَالغَوِيْتُ: کھانے وغیرہ کی مدد۔

السَّغَاوِثُ: پانی۔ کہا گیا ہے کہ اس کے لئے مفرود نہیں۔

غَاخٌ يَغْوُجُ غَوْجًا وَتَفْوُجٌ. الغُضُنُ: ٹہنی کا جھلکا مڑنا۔ تَفْوُجٌ الرَّجُلُ فِي مَشِيَّتِهِ: چال میں چلنا۔

غَارَ يَغْوِرُ غَوْرًا: پستی کی طرف آنا۔

المَاءُ: گہرائی میں جانا۔ صفت (غَائِرٌ) النَّهَارُ: سخت گرمی والا ہونا..... الرَّجُلُ:

دوپہر میں سونا..... الشَّيْءُ: طلب کرنا۔ کہا جاتا ہے "عُرْتُ فِي غَيْرِ مَغَارٍ" بغیر مطلب کے میں نے طلب کیا۔

غَارَتْ تَغْوِرُ غَوْرًا وَغَوْرًا. عَيْنُهُ: آنکھ کا جھنس جانا۔

غَوْرًا وَغَوْرًا وَغِيَارًا. فِي الْأَمْرِ: معاملہ میں باریک نظر سے دیکھنا..... فِي الشَّيْءِ:

داخل ہونا۔ غَارَتْ غِيَارًا وَغَوْرًا. الشَّمْسُ: آفتاب کا غروب ہونا۔

غَارَ لَهُمُ اللّٰهُ غِيَارًا وَغَارَهُمْ: رزق وغیرہ سے اعانت کرنا۔

عَوْرٌ: پستی کی طرف آنا..... المَاءُ: زمین میں اترنا..... الرَّجُلُ: دوپہر میں چلنا یا نازل ہونا یا سونا..... القَوْمُ: قوم کو نکست دینا..... عَوْرَتُ الشَّمْسِ: غروب ہونا ڈوبنا۔ کہا جاتا ہے عَوْرَةُ النَّهَارِ: جبکہ دن ڈھل جائے۔

أَعَارَ إِعَارَةً: چلنے میں جلدی کرنا۔ پستی کی طرف آنا۔ سُر کرنا..... السَّجَلُ: رسی کو مضبوط بنانا۔

أَعَارَ إِعَارَةً وَغَارَةً وَمَغَارًا. عَلَيْهِمُ: لوٹ

ذالنا..... الفرس: تیز دوڑنا..... بِهِمُ وَالنَّهْمُ: مدد دینے کے لئے آنا۔

غَاوَرٌ مُّغَاوِرَةٌ. القُدْوُ: دشمن پر لوٹ ڈالنا..... بعض کا بعض پر لوٹ ڈالنا۔

تَفَوَّرَ: پستی کی طرف آنا..... طَاسِرُ العَيْنِ: جھنس جانا۔

تَفَاوَرُ: القَوْمُ: بعض کا بعض پر لوٹ ڈالنا۔ اِغْتَارَ اِغْتِيَارًا: نفع اٹھانا۔ غلہ حاصل کرنا۔ اِسْتَعَارَ عَلَيْهِمُ: لوٹ ڈالنا..... الرَّجُلُ:

پست زمین میں اترنے کا ارادہ کرنا۔ موٹا ہونا..... البُحْرُجُ: زخم کا سوجنا۔ اِسْتَفَوَّرَ اِسْتَفَوْرًا: غلہ ماٹلنا۔

السَّارُ: غار جِ اَعْوَارٌ وَغَيْرَانٌ: ایک قسم کا درخت واحد (غَسَارَةٌ) غفار۔ بڑا ٹکڑا۔ انگور کے پتے۔ غیرت۔ ٹھوڑی کا گڑھا۔ السَّارَانُ: ہڈیاں جن میں آنکھیں ہیں اوپر نیچے کے تالو۔

الغارة: مَصٌّ۔ لوٹ۔ اسم ہے اغارة: کاج غارات: تیز رفتار غارت ڈالنے والا گھوڑا۔ کہا جاتا ہے "حَسِلَ شَدِيدُ الغارة: مضبوط بنی ہوئی رسی" و "سِنَّ الغارة عَلَيْهِمُ" گھوڑوں کو متفرق کر دیا اور ہر طرف سے ان پر لوٹ پڑا۔

السَّوْرُ: مَصٌّ۔ پست زمین۔ نیچے اترنا ہوا پانی۔ گڑھا۔ غار۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ بَعِيدُ الغور" فلاں نہایت باریک میں ہے۔ و "عَرَفْتُ غَوْرَ المَسَالَةِ" مسئلہ کی حقیقت میں نے جان لی۔

الغائرة: مَوْتٌ غَائِرٌ وَدَوِيْرٌ: دوپہر کا سونا۔ الغورة: آفتاب۔ قیلول۔ الغور: خون بہا۔ الغورجی: ہر چیز کا گڑھا۔

السَّغَارُ وَالْمَغَارُ وَالْمَغَارَةُ وَالْمَغَارَةُ: غارُ لوٹ جِ مَغَاوِرٌ وَمَغَارَاتٌ..... السَّغَارُ: لوٹ کی جگہ۔

الجغوار والسَّغَاوِرُ: مِنَ الرِّجَالِ: بہت لوٹ ڈالنے والا۔ فَرَسٌ مَغَاوِرٌ: تیز رفتار

دوسرے کی مدد کرنا۔ إِنْفَوَى. الرَّجُلُ: گمراہ اور جھکتا۔ إِسْتَفْوَى. الرَّجُلُ: گمراہ کرنا۔ کہا جاتا ہے بِش (غَوَى وَغَوِيًا وَمُغْوِيًا وَمُغْوِيًا) یعنی میں نے تمہارا تیرا ہر کی۔ السَّيِّئَةُ وَالغَيَّةُ: گمراہی۔ کہا جاتا ہے "إِنَّهُ وَلَدَعَيَّةٌ" یعنی ولد الزنا ہے۔ الغَاوِي: فاج غَاوُونَ وَغَوَاةٌ. رَأْسُ غَاوٍ: چھوٹا سر یا بہت پھرنے والا سر۔ وَالسَّوَى وَالسَّوِيَّةُ وَالغَيَّانُ: گمراہ۔ خوابشات کا غلام۔ الغَاوِيَةُ: مومٹ غَاوِي: مشک جس میں پانی ہو۔ الاعْوِيَّة: مصیبت۔ ہلاکت۔ دردوں کے شکار کے لئے گڑھا۔ کہا جاتا ہے "وَقَعَ النَّاسُ فِيْ غَاوِيَةٍ جِ اغَاوِي." السَّوَاةُ: گمراہی کی جگہ۔ جِ اغَاوِي. السَّوَاةُ: گمراہی کی جگہ جِ اغَاوِيَات. غَابَ يَغِيْبُ غَيْبًا وَغَيْبًا وَغَيْبًا وَمَغِيْبًا. غَنَبَ: غائب ہونا۔ دور ہونا۔ جدا ہونا۔ غَابَتِ الشَّمْسُ غَيْبًا وَغَيْبِيَّةً: آفتاب کا غروب ہونا..... الشَّيْءُ عَنْ فُلَانٍ: پوشیدہ ہونا..... غَنَبَ بِلَادِهِ: سفر کرنا۔ غَابَ يَغِيْبُ غَيْبًا وَغَيْبًا وَغَيْبًا وَغَيْبِيَّةً الشَّيْءُ فِي الشَّيْءِ: چھپ جانا۔ غَابَهُ غَيْبَةً وَغَيْبًا: غیبیت کرنا۔ پیٹھ پیچھے بدگوئی کرنا۔ غَيْبَهُ: دور کرنا۔ کہا جاتا ہے غَيْبَهُ غَيْبًا: یعنی وہ اپنی قبر میں دفن کیا گیا۔ أَغَابَتِ السَّمْرَةَ: غائب شوہر والی ہونا۔ صفت (مَغِيْبٌ وَمَغِيْبَةٌ وَمَغِيْبٌ) غَابِيَةٌ مُغَابِيَةٌ: پیٹھ پیچھے بات کہنا۔ تم کہتے ہو "أَنَا مَعَكُمْ لَا أُغَابِيكُمْ" میں تمہارے ساتھ ہوں تمہاری پیٹھ پیچھے بات نہیں کروں گا۔ تَغَيَّبَ: غنہ: غائب ہونا۔ تَغَابَتِ: القَوْمُ: غائب ہونا۔	بِنُو (غَوِيْبٌ) بہت گہرا کنواں۔ الغَاغ: پودینہ۔ واحد (غَاغَةٌ) الغَاغَةُ: بہت سے مختلف لوگ۔ الغَوَاةُ: امر کی علاقے کا ایک درخت۔ السَّوَاةُ: مٹی جو اڑنے کے لئے تیار ہو یا جس کے پر نکل آئے ہوں۔ بہت سے مختلف لوگ۔ نیچے طبقے کے لوگ۔ فساد کی لوگ۔ غَالَهُ يَغْوِلُهُ غَوْلًا وَغَيْبًا: ہلاک کرنا۔ اچانک پھل لینا۔ غَالَتِ السَّمْرَةُ: شراب کا مست کر دینا۔ غَاوِلٌ مُغَاوِلَةٌ: جلدی چلنا۔ تَغَاوَلَا: ایک دوسرے پر سبقت کرنا۔ تَغَوَّلَ. الأَمْرُ: اہتر ہونا۔ تَغَوَّلَتِ الْمَرْأَةُ: رنگ برنگ ہونا۔ تَغَوَّلْتَهُمُ الْغَيْلَانُ: بے راہ کردینا..... الأَرْضُ بِفُلَانٍ: ہلاک کر دینا اور بے راہ کر دینا۔ السَّوَلُ: مہم۔ دوسرے مدد ہوش۔ جنگل کی دوری۔ مشقت۔ پست زمین۔ بہت مٹی۔ السَّوَلُ: مصیبت۔ ہلاکت۔ بھلاہ ج اغوال و غیلان: سانپ۔ ہر وہ چیز جس سے عقل زائل ہو جائے۔ چادوگر اور جن جو مختلف رنگ بدلیں۔ موت۔ جِ اغْوَال. الغَيْلَةُ: اسم ہے اغتیبال کا۔ الغَيْبَالَةُ: مومٹ غَائِلٌ: مصیبت۔ فساد۔ ہلاکت۔ برائی جِ اغْوَالِ. الاعْوَالُ: مِنَ الْعَيْشِ: آسودہ زندگی۔ السَّوَالُ: ہلاک کرنے کا آلہ۔ لہذا پیکار۔ کیتی۔ المغَالَةُ: ہلاکت۔ غَوَى يَغْوِي وَغَيًّا وَغَوِيًا غَوَاةً : گمراہ ہونا۔ محروم ہونا۔ ہلاک ہونا۔ وَغَوِيًا وَغَوِيًا: الرَّجُلُ: گمراہ کرنا۔ غَوَى يَغْوِي وَغَوِيًا غَوَاةً: الغَاوِي : اونٹ کے بچے کو بد معنی ہونا اور لاغر ہو کر قریب ہلاکت ہونا۔ صفت (غَوِي) تَغَاوَى: پہ تکلیف گمراہ بنا جھکتا جا مل بنا الْقَوْمُ عَلَيْهِ: قتل کرنے کے لئے ایک	کھوڑا۔ غَاوَةٌ يَغْوِرُ غَوْرًا: قصد کرنا۔ ارادہ کرنا۔ الغَازُ: کبیر۔ جِ غَاوَات. غَاوٌ يَغْوِسُ غَوْصًا وَغِيَابًا وَغِيَابَةً وَمَغَاوًا. فِي الْمَاءِ: پانی میں غوطہ لگانا۔ صفت (غَاوِي) جِ غَوَاوٌ وَغَاوَةٌ: غَاوٌ غَلِي الشَّيْءِ: اچانک آ جانا۔ غَلِي الْمَعَالِي: معالی کی حقیقت تک پہنچنا۔ غَوَاةٌ: غوطہ لگانا۔ الغَوَاوُ: بہت غوطہ لگانے والا۔ وہ شخص جو موتی وغیرہ کے لئے غوطہ خوری کرتا ہے اور اس فن کا نام "الغِيَابَةُ" ہے۔ ایک پرندہ جو غوطہ لگا رہتا ہے۔ السَّوَاةُ: غواص۔ کامونٹ۔ آبدوز کشتی۔ السَّوَاةُ: مہم۔ غوطہ لگانے کی جگہ۔ پنڈلی کے اوپر کا حصہ۔ غَاوٌ يَغْوِسُ غَوْطًا. السَّوَاةُ: گڑھا کھودنا۔ فِيهِ: داخل ہونا۔ گھسنا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا رَمَلٌ تَغْوِسُ فِيهِ الْأَقْدَامُ: یہ ایسی ریت ہے جس میں پاؤں گھس جاتے ہیں۔ فِي الْمَاءِ: پانی میں غوطہ لگانا۔ غَوَطَ. البِنْرُ: کنواں گہرا کھودنا۔ الطَّعَامُ: بڑے بڑے لقمے لگانا۔ تَغَوَطَ: پانچا نہ کرنا۔ کہا جاتا ہے تَغَوَطَ وَبَالَ: پیشاب یا پانچا نہ کیا۔ تَغَاوَطَا. فِي الْمَاءِ: ایک دوسرے کو غوطہ دینا۔ إِنْفَاطَ. العَوْدُ: بکڑی کامرنا۔ الغَايِبُ: نا۔ پانچا نہ۔ پانچا نہ کرنے کی جگہ۔ پست زمین۔ الغَوَطُ وَالغَاوُ وَالغَوَاةُ: پست زمین۔ جِ غَوَطٌ وَغَوَاوٌ وَغِيَابٌ وَغِيَابَانُ. الغَاوُ: جماعت۔ السَّوَاةُ: شام میں ایک جگہ کا نام ہے جہاں پانی اور درخت بہت ہیں۔ اس کو غوطہ دمشق بھی کہتے ہیں۔
---	--	---

بال بائیں اور (غیس) کا لفظ سوی کے معنی میں آتا ہے۔ ج غیث اور لا کے معنی میں بھی اور بوجہ حالت کے منصوب ہوتا ہے۔ جیسے "فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ" بمعنی لا باغیا..... اور لا کے معنی میں بھی۔ پس اسم لازم الاضافہ ہوتا ہے لفظوں میں مقطوع عن الاضافة بھی ہوتا ہے اگر معنی سمجھ میں آسکے اور اس سے پہلے لیس یا لا ہو اور اضافت کے رفع اور نصب جائز ہے اور حذف مضانہ الیہ کے وقت حالت رفع اور نصب اور فتح بھی جائز ہے۔ کہو گے "قَبَضْتُ عَشْرَةَ لَيْسَ غَيْرُهَا وَلَيْسَ غَيْرُهَا وَلَيْسَ غَيْرٌ وَلَيْسَ غَيْرٌ" بمعنی لیس الا اور کہا جاتا ہے "فَعَلَهُ غَيْرَ مَرَّةٍ" یعنی ایک سے زائد مرتبہ کیا۔ الغیرۃ: خون بہا۔ غلہ کا ذخیرہ۔ نخوت اسم ہے۔ غار کا ج غیر۔

غیر۔ الذہر: زمانے کا حادثہ۔

السعیثیۃ: عینیت کے خلاف۔ ہر روش میں سے ایک کا دوسرے کے خلاف ہونا۔

المغیر والمغیور: سیراب شدہ مقامات۔ کہا جاتا ہے "مَكَانٌ مَغْيِرٌ وَمَغْيُورٌ وَأَرْضٌ مَغْيِرَةٌ وَمَغْيُورَةٌ"۔

غاض یغیض غیضاً ومغاضاً وتغیض وانغاض: پانی یا قیمت کم کرنا۔ ذمغہ: آنسو روکنا۔

الغیض: مص۔ تا تمام بچہ۔ قلیل۔

الغیضہ: ایک مرتبہ کم کرنا۔ جھاری۔ پانی کی جگہ میں بہت درخت۔ ج غیضاض وأغیاض وغیضات۔

المغیض: پانی کے جمع ہونے کی جگہ۔ ج مغیاض کہا جاتا ہے "مَاءٌ مَغْيِضٌ" یعنی وہ پانی جو جمع ہونے کی جگہ تک جاری ہو۔

غاط یغیط غیطاً: فیہ داخل ہونا۔

المغیاطۃ: خصومت۔ کہا جاتا ہے "بَيْنَهُمْ مَغْيِاطَةٌ" یعنی ان کے درمیان خصومت ہے۔

الغیط: باغ۔

الغیث: مص۔ نراکت۔

الأغیث: نزم و نازک پودہ۔ مکان اغیث: بہت پودہ والی جگہ۔

الغاذۃ: نزم و نازک بدن عورت۔ تردنازہ شاخ۔ ج غاذات۔

غیذان الشیاب: اول جوانی۔

غیث غیث: مکر مستعمل ہے اور علی الکر ہے اور اسم فعل بمعنی امر ہے یعنی جلدی کرو جلدی کرو۔

غیثیق: المظور: بارش کا بہت ہونا۔

الغذق: مص۔ بہت پانی۔

الغیثاق: سرسبز۔ فیاض۔

والغیثیق والغیثاقان: نزم و نازک۔ غار یغار غیرۃ وغیراً وغاراً: الرجل علی امرأته من فلان وهی علیہ من فلانۃ: غیرت کھانا۔ صفت (غیثران وغیور ومغیر) مَوْت (غیور وغیر) ج غیاری وغیاری وغیور ومغایر اور اسم الغیرۃ۔

غازۃ یغیثہ غیثاً: لغز دینا۔ کہا جاتا ہے "غازۃ یغیث" یعنی اس کو خیر کا نفع دیا۔ وغازہم اللہ بمظہر" یعنی اللہ نے ان کو بارش سے سیراب کیا۔

غازۃ یغیثہ غیثاً وغیرۃ: خون بہا دینا۔

غیر الشئی: بدل دینا۔ تغیر کر دینا۔

غایرہ غیثاً ومغایرۃ: تبادلہ کرنا۔ مخالفت کرنا۔ خرید و فروخت میں مقابلہ کرنا۔ غیر ہونا۔ مغایرت برتنا۔

أغازۃ اغازۃ: غیرت پر برا بھانتہ کرنا۔

..... السرجل امرأۃ: مرد کا دوسرا نکاح کر کے پہلی بیوی کو غیرت میں ڈالنا۔

تغیر: بدل جانا..... علی امرأته: بیوی پر غیرت آنا۔

تغایر: الزوجان: ایک دوسرے پر غیرت کرنا۔

تغایرت الاشیاء: چیزوں کا مختلف ہونا۔

إغتار اغتیاراً: الرجل: غلہ مہیا کرنا۔

الغیر: مص اسم ہے غیر سے کہا جاتا ہے "فَمَنْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ يَلْقَى الْغَيْرَ" یعنی جو شخص کفر باللہ کرے گا وہ متغیر الحال ہوگا کہ صلاح سے فساد کی جانب پہنچ جائے گا۔ بسناث غیر: جھوٹ اور

الغیب: مص۔ شک۔ ہر وہ چیز جو تم سے غائب ہو۔ مجید۔ پست زمین۔ ج غیباب وغیوب: کہا جاتا ہے "سَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ وَرَاءِ الْغَيْبِ" یعنی میں نے آواز ایسی جگہ سے سنی جس کو میں دیکھتا نہیں۔

الغیبۃ والغیبۃ: پست زمین۔ قبر۔ الغیبۃ من محل شئی: پردہ..... من الوادی او الجب: وادی یا کنوئیں کی گہرائی۔

الغیبۃ: پیچھے کی بدگئی۔

الغائب: فاج غیب وغیب وغیباب وغائبون۔ غائب: جو چیز تم سے غائب ہو۔

الغائبۃ: بانس کی جھاڑی۔ پست زمین۔ لوگوں کی جماعت لمبا نیزہ۔ ج غاب وغائبات وغائبۃ البحر: سمندری کیڑوں کا حجر درخت۔

الغیاب: مص۔ قبر۔ غیاب الشجر وغیابہ: درخت کی جڑیں۔

الغیوب والغیاب: غائب کا اسم مبالغہ۔

الغیوبۃ: غروب۔ کہا جاتا ہے "لَقِيْتُهُ عِنْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ" میں نے اس سے آفتاب کے غروب کے وقت ملاقات کی۔

غاث یغیث غیثاً: اللہ البلاد: برسانا۔ غاث الغیث الارض: بارش کا زمین پر برسا۔

غیثت: الارض: زمین کا سیراب ہونا۔ صفت (مغیثۃ ومغیوثۃ) غاث النور: روشن ہونا۔

تغیث: البعیر: اونٹ کا مونا ہونا۔

الغیث: بارش۔ گھاس جو بارش کی وجہ سے اُگے۔ کہا جاتا ہے "زَعِيْنَا الْغَيْثُ" اور بسا اوقات بادل کو بھی غیث کہتے ہیں۔ ج غیوث وأغیث اور کہا جاتا ہے غیث مغیث عام بارش۔ سحباب (غیث) موسلا دھار بارش کا بادل اور کہا جاتا ہے "بَنُرٌ ذَاتُ غَيْثٍ" بہت پانی والا کنواں۔

غید یغید غیثاً: الغلام: لڑکے کا بچگی ہوئی گردن والا ہونا۔ نزم کندھوں والا ہونا۔ صفت مذکر (اغیث صفت مَوْت (غیثاء) ج غیث۔

تغاید: فی مشیبتہ: نراکت کی وجہ سے چلنے میں جھکتا۔

غَاظَهُ يَغْظُهُ غَيْظًا وَغَيْظَةً وَأَغَاظَهُ وَغَايَظَهُ
 غَضِرًا لَنَا - غَضِرًا غَضِرًا بِرَأْسِهِ كَمَا جَاءَتْ
 "غَايَظُ صَاحِبَهُ فِي الْعَمَلِ" مَقَابِلَهُ كَرْنَا -
 تَغَيْظُ السَّخَرُ: تَحْتَ غَرْمِي هُوَ (.....)
 وَأَغَاظَهُ غَضِبْنَا كَ هُوَ -
 الْغَيْظُ: مِصْرٌ - غَضِبَ يَأْتِي تَحْتَ غَضَبٍ -
 الْغَيْظُ: غَمٌّ - مَشَقَّةٌ -
 الْمَغِيظُ: نَارًا ضَرْبٌ - رَجِيْدَةٌ -
 غَاظَتْ تَغِيظُ غَيْفَانًا وَأَغْيَفَتْ وَتَغْيِفُ
 الشَّجَرَةَ: دَائِمٌ يَأْكُلُ حَتَّى يَهْلِكَ هُوَ فِي شَاخِ
 وَاللَّوْنِ هُوَ - صَفْتُ (غَيْفَاءً) (غَيْفٌ) بِهَاجِنًا -
 بَزُولٌ هُوَ (..... وَتَغْيِفُ) عَنِ الْأَمْرِ: الْكُفْرُ
 كَرْنَا - إِعْرَاضُ كَرْنَا - بَنَانُ -
 أَغَاظَ الْغَضْنَ: نَبِيٌّ كُوجِحَا كَانَا -
 الْغَاظُ: أَيْكَ دَرَجَتٍ هِيَ جِسْمٌ كَالْحَمَلِ بَهْتٍ
 يَتَمَّحَا هُوَ هِيَ وَاحِدَةٌ غَاظَةٌ - هِيَ -
 الْغَيْفُ: بَرْدٌ كَالْحَمَلِ -
 الْأَغْيَفُ: نَارٌ كَبَدَنٍ - كَمَا جَاءَتْ هِيَ "غَيْفُشُ"
 "أَغْيَفُ" أَيْ سَوْدَةٌ وَخَوْشٌ حَالٌ زَنْدُغِي -
 مَوْنُثٌ غَيْفَاءُ شَجَرَةٌ غَيْفَاءُ: جَمَلٌ هُوَ فِي
 ذَا بِلْوَى وَالْأَدْرَجُ -
 الْغَيْفَاءُ: بَهْتٌ بَرِيٌّ لَبِيٌّ دَائِمٌ وَاللَّوْنِ -
 الْغَيْفَانُ وَالْغَيْفَانُ: مَتَكَبِّرَانِ جَاوِلٍ -
 غَيْفٌ: الْمَالُ: بَكَرْنَا فَاسَدْنَا فِي زَايَةٍ
 فَيُرْسَطُ مَرَاجٍ هُوَ الطَّائِرُ: أَيْ جَمَلٌ فِي
 يَجْرُ بِحَرَا بَصْرَةٌ: نَظَارَةٌ كُوجِحِيْنَا -
 تَغْيِفُتُ: الْعَيْنُ: آكَلْتُ كَارِيكَ هُوَ -
 غَاظُ: مِثْلُ الْكَمْرِ - كَوْنُ كِي آوَارِكِي
 حَكَيْتُ الْكَمْرَةَ كَمَا جَاءَتْ (غَاظُ) تَوِينٌ
 سَهْلٌ كَمَا جَاءَتْ -
 الْغَاظُ: كَوْنٌ (..... وَالْغَاظَةُ) أَيْ أَبِي بَرْدَةٌ
 هِيَ جِسْمٌ كُوجِحَا: أَوْ غَرَابُ الْمَاءِ هِيَ
 كَيْتِي هِيَ -
 غَاظَتْ تَغِيظُ غَيْلًا وَأَغَاظَتْ إِعَاظَةَ الْمَرْأَةِ
 وَلَدَهَا: نَبِيٌّ كُوجِحَا حَالٌ دُودُهُ پَلَانَا -
 صَفْتُ (غَايَلَةٌ وَغَيْلٌ وَغَيْلٌ)
 غَاظَةٌ يَغْيَلُ غَيْلًا وَغَيْالَةً وَغَوُولًا: جَرَانَا -
 أَغْيَلْتُ إِغْيَالًا: الْمَرْأَةُ وَلَدَهَا: نَبِيٌّ كُوجِحَا

بِحَالَتِ حَمَلِ دُودِهِ پَلَانَا الشَّجَرَةُ: دَرَجَتٌ
 كَابَزَا أَوْ رَمْنَا هُوَ الْغَيْمُ: كَبْرِي كَالسَّالِ
 فِي دُورِ تَبِيحِيْنَا -
 تَغْيَلُ الْقَوْمُ: كَثِيرُ الْمَالِ هُوَ -
 تَغْيَلْتُ وَإِسْتَغْيَلْتُ: الشَّجَرَةُ: دَرَجَتٌ كَا
 كَحَفِي ثَمِينِي وَاللَّوْنِ هُوَ - صَفْتُ (مَغْيَالٌ)
 إِغْيَالٌ إِغْيَالًا: الْغَلَامُ: مَوْنُثٌ تَارَهُ هُوَ -
 الْغَيْلُ: حَالٌ حَمَلِ كَادُودُهُ - مَوْنُثٌ تَارَهُ
 لِرَاكَا - مَوْنُثٌ غَيْلَةٌ: زَمِينٌ بِرَبْتَا هُوَ پَانِي -
 وَادِي جِسْمٌ فِي جَمْعِي جَارِي هُوَ - دُورِي كِي چِي
 جُونَزْدِي كَدْحَا لِي دَعِي -
 الْغَيْلُ: جَمَارِي - مَجْمَانٌ دَرَجَتٌ - وَادِي
 جِسْمٌ فِي پَانِي هُوَ - شِيرُ كِي مَانِدُ جِ
 أَغْيَالٌ وَغَيْوُلٌ -
 الْغَيْلَةُ: دُودُ كَا - غَفْلَتٌ سَهْلٌ مَارُذَالَا - حَمَلٌ فِي
 دُودِهِ پَلَانَا - كَمَا جَاءَتْ هِيَ "فَقَلْتُ غَيْلَةً" وَهُوَ كِي
 سَهْلٌ مَارُذَالَا -
 الْغَايَلَةُ: شَرٌّ - بَانِي كِينِدُ - حَوْضٌ فِي شَكَاغٍ -
 جِغْوَالِي: الْغَوَالِي: مَهِيْبِيْنَا -
 الْمَغَايَلَةُ: بَدِي - بَرَانِي -
 الْإِغْيَالُ: بَدُوكُوشَتُ -
 الْغَيْالُ: اسْمٌ مَبْنِيٌّ - شِيرَا سِ دَجْرٌ كِي غَيْلُ:
 أَيْ جَمَارِي فِي رِبْتَا هِيَ -
 الْمَغْيَالُ: مَجْمَانٌ سَاهِي دَرَجَتٌ -
 غَاظَتْ تَغْيِمُ غَيْمًا وَغَيْمَتْ وَأَغَاظَتْ
 إِعَاظَةً وَأَغْيَمَتْ إِعْيَامًا وَتَغْيِمَتْ السَّمَاءَ
 : بَادِلٌ وَاللَّوْنِ هُوَ - غَامُ الْبَسِيْرُ: أَوْنُثٌ كَا پِيَا سَا
 هُوَ - صَفْتُ (غَيْمَانٌ مَوْنُثٌ (غَيْمِي))
 أَغْيَمْتُ الْقَوْمَ: پِيَا سَا هُوَ أَغْيَمُوا فِي الْمَكَانِ:
 أَقَامَتْ كَرْنَا -
 غَيْمٌ: الْبَعِيْرُ: أَوْنُثٌ كَا پِيَا سَا هُوَ -
 الْغَيْمُ: مِصْرٌ - بَادِلٌ جِغْوِيَوْمٌ وَاحِدٌ (غَيْمَةٌ)
 پِيَا سَا - أَوْنُثٌ كِي أَيْكَ بِيَارِي حَمَلٌ سَهْلٌ كِي هُوَ -
 يَوْمٌ (غَيْوُمٌ) بَدَلِي كَادَن -
 غَاظٌ يَغْيِيظُ غَيْنًا: پِيَا سَا هُوَ -
 غَاظَتْ: نَفْسُهُ: مِثْلَانَا - غَاظَتْ وَغَيْبَتْ
 السَّمَاءُ: آسْمَانٌ بِرَادِلٌ كَرْنَا -
 غَيْنٌ وَغَيْنٌ: عَلِيٌّ قَلْبُهُ: خُبْرَاثَتٌ كَا غَالِبٌ هُوَ -

أَغَاظَ السَّحَابَ السَّمَاءَ: بَادِلٌ كَرْنَا -
 غَيْنٌ: حَرْفٌ كَلْبَانَا -
 الْغَيْنُ: مِصْرٌ - حَرْفٌ كِي كَا أَيْكَ حَرْفٌ - بَادِلٌ -
 الْغَيْنَةُ: مِلَا پَانِي كِي كَسْفٌ دَرَجَتٌ -
 الْغَيْنَةُ: پِيَا مَرْدَارٌ سَهْلٌ جَمَارِي -
 الْإِغْيَانُ: مِصْرٌ الشَّجَرُ وَالنَّبَاتُ: سِرْبَرَا
 لِسَا - مَوْنُثٌ غَيْنَاءُ جِغْيَانُ
 الْغَيْمُ: تَارِي كِي -
 غَايَا تَغْيِيَةٌ وَأَغْيَا إِغْيَاءً: الْغَايَةُ أَيْ الرَّايَةُ:
 جَمْعُ الْكَارِثَا - غَايَا الْقَوْمُ: جَمْعُ الْكَارِثَا
 الطَّيْرُ عَلِي الشَّيْ: بَرْدَةٌ كَا پِيَا پِيَا
 أَغْيَا السَّحَابُ: بَادِلٌ كَا أَيْكَ جَمَلٌ پَرْمَلُ
 جَانَا - أَغْيَا الرِّجْلُ: شَرَاظَتٌ يَامَاعِلَةٌ فِي
 ائْتِيَا كُوجِحِيْنَا -
 الْقَوْمُ فِي سَبَابِهِ: كَهْوَرٌ كَا حَادِثَةٌ پَرِيَا
 غَايَا مَغَايَاةً الْقَوْمُ فِي زَايَةٍ بِالسُّوْفِ:
 كَسِي كِي سِرْبَرَا كَا پَلَنْدُ كَرْنَا -
 تَغْيَايْتُ: الطَّيْرُ عَلِي الشَّيْ: بَرْدَةٌ كَا
 مِثْلَانَا - كَمَا جَاءَتْ هِيَ "تَغْيَايُوا عَلِيهِ حَتَّى
 قَلُّوهُ" أَيْ أَيْكَ دُورٌ سَهْلٌ كِي اِعَاظَتُ كِي
 يِهَا تَكُ كَقَتْلُ كَرُوِيَا -
 السَّيَاةُ: نِدْبَةٌ - جَمْعُهَا: تَمِيْمَةٌ جِغْيَايَاتُ
 وَغَايَا: أَوْنُثَتٌ كَيْلِي (غَايَا) أَوْ كَمَا جَاءَتْ هِيَ
 "غَايَتُكَ أَنْ تَفْعَلَ كَذَا" أَيْ تَمَارِي ائْتِيَا
 طَاظَتُ هِيَ كِي تَمِ ائْتِيَا كَرُوِيَا وَالْغَايَةُ: پِيَا پِيَا
 وَاللَّوْنِ پَرْدَةٌ - چَرِيوِي كِي چَمْسَانُ كِي لِي - كَمَا
 جَانَا هِيَ "أَنْتَ يَغْيَلُ الْغَايَةَ" أَيْ تَمَارِي رَايَةً
 دَرَجَتٌ هِيَ -
 السَّيَاةُ: آفَاظُ كِي شَعَاعُ كِي رُوشِي كُنُوِي
 كِي كَرَانِي - هَرُوهُ چِي جَوَانِسَانُ پَرَسَا يِه ائْتِيَا
 هُوَ - جِي سَهْلٌ بَادِلٌ كَرُوِيَا وَغَايَا وَغَايَا
 غَايَاتُ -
 الْغَيْةُ: غَوِي: كَا مَادُو كَيْلِي -
 الْغَيْرُ دِيَا: چُوْرُ پِيَاوَلُو وَاللَّوْنِ كَرَانُ كِي
 سَهْلٌ وَاللَّوْنِ -
 السَّيَاةُ: جِسْمٌ كِي لِي غَايَتُ مَقَرُّ كِي كِي هُوَ -
 كَمَا جَاءَتْ هِيَ "السَّيَاةُ لَا تَدْخُلُ فِي السَّيَاةِ"
 أَيْ حَادِثَةٌ فِي دَاخِلِهَا هِيَ -



ہڈی۔ فأس الفم: منہ کا وہ کنارہ جس میں
دانت ہیں۔ فأس اللجم: لگام کا وہ لوہا جو
گھوڑے کے منہ میں ہوتا ہے۔

فأساً فأساً: الرجُل: حرفِ فا اکثر بولنا۔
صفت (فأساً وفأساً)
فأس (ف) فأساً یعنی آنا۔

فأساً تفصيلاً بالشئ: قال ليها۔
تفأس وتفاءل وتفأسل به: اچھا لگنوں لینا۔
القال: نیک لگنوں۔ جیسے مریض کسی کو ناسا لیم

کہتے ہوئے سنے تو اس سے یہ سمجھے کہ صحت
ہو جائے گی۔ کہا جاتا ہے "لا قال عليك"
یعنی تیرے اوپر کوئی ضرر نہیں۔ ج فأسول
والفوال۔

فأس (ف) فأساً: من الماء: پانی سے
سیراب ہونا۔

فأس وفيسم فأساً وتفأس: البعير: گھاس سے
منہ بھرنا۔

فأس وأقام: القتب: پالان کو وسیع کرنا۔ أقام
الدلو: ڈول بھرنا۔

الفنم: لوگوں کی جماعت اور اس لفظ سے
واحد نہیں ج فأسوم کہا جاتا ہے قسطعوه
(فأسوماً) یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔

فأس يفأس فأوأ فأساً: راس فلان: کسی کے
سر کو تلوار سے پھاڑ دینا۔

فأس: ننگ وادی میں پڑنا۔
فأس: القذخ: پیالہ کا پھینا۔
فأس: كحلنا: الشئ: پھینا۔

فأسا: مصل۔ دو پہاڑوں کے درمیان

تفأسد: النار: آگ کا جلنا۔
الفؤاد: دل۔ بسا اوقات عقل پر بھی اطلاق
ہوتا ہے۔ ج أفندة۔

الفئيد: آگ۔ بھنا ہوا۔ بزدل۔
الأسود: بھوبھل کی پکی ہوئی روٹی۔
بھوبھل میں روٹی رکھنے کی جگہ۔ ج أفأيد۔

المفأسد: آگ جلنے کی جگہ۔
المفأسد والمفأسد والمفأسد: آگ کریدنے
کا لوہا یا لکڑی۔ ج مفأيد ومفأيد۔

الأسفود: دل کی بیماری والا۔ بزدل۔
بھوبھل کی پکی ہوئی روٹی۔ بھنا ہوا۔
فأس (ف) فأساً: التراب: مٹی کھودنا۔

..... الشئ: دُفن کرنا۔ چھپانا۔
فأس (س) فأساً: المكان: بہت چوہے والا
ہوتا۔

الفار: مصل۔ چوہا۔ ج فأسان وفأسرة: واحد
(الفأسرة) مذکر مؤنث دونوں کے لئے۔

الفأسرة: مصل کا ناف۔
مكان (فأسر) وأرض (فأسرة ومفأسرة) بہت
چوہوں والا مکان۔ بہت چوہوں والی

زمین۔
فأس (ف) فأساً: الخشبة: لکڑی کو
کلباڑی سے پھاڑنا..... السرجل: کلباڑی
سے مارنا۔ سر کے پچھلے حصہ پر لگانا۔

الفأس: مصل۔ کلباڑی۔ کبھی بغیر ہمزہ کے
بولتا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے (فأس) اور یہ
مؤنث سماعی ہے ج أفوس وفؤوس فأس
السراس: سر کے پچھلے حصہ کی اُبھری ہوئی

ف: الفأس: میسواں حرفِ بنیادی حروف
میں سے۔ شعوی حروف (ہوتوں کے لئے
سے ادا ہونے والے الفاظ)۔

الفأس: یہ حرف کئی معنوں میں مستعمل ہے۔
(۱) ترتیب جیسے قام زید فعمرو۔
(۲) تعقیب: جیسے حبس زیداً فقتله۔

(۳) سبب: جیسے ضرب زیداً فمات۔
(۴) رابطہ۔ جواب شرط میں جیسے ان كنتم
تجسونني فاحفظو وصاياي: شبہ جواب
شرط میں جیسے الذي ياتيني قلله درهمه۔

(۵) ناسب مضارع کے لئے محمد يران جیسے
زرني فاحرمك۔

(۶) استحباب کے لئے جیسے يقول كمن
فيكون۔
(۷) زائدہ جیسے زيد فلان تضربه۔

خرجت فأساً الأسد في الدار. ولما
قمت فقمنا۔

أفأس: ہر ایہ رائے میں منفر ہوتا۔ اکیلا
ہوتا..... على الباطل: گھڑ لینا۔

أفأس: اچانک مرجانا۔
فأس (ف) فأساً: دل پر مارنا۔ دل پر لگانا۔
فأس الخوف فلاناً: بزدل بنانا..... اللخم
في النار: گوشت بھوننا..... الخبز: روٹی کو
بھوبھل میں ڈالنا۔

فأس فأساً وفأس (س) فأساً: دل کی بیماری
والا ہونا۔

أفأس الرجُل: بھوننے کے لئے آگ جلانا۔
اللخم في النار: گوشت بھوننا۔

شکاف۔ وادی میں تنگ جگہ۔ چلتی جگہ۔
 ریت کا تودہ۔ رات۔ آفتاب غروب
 ہونے کی جگہ۔ پہاڑوں کے درمیان عمدہ
 زمین۔
 الفتنۃ: جماعت۔ گردہ ج فتنات وفتون۔
 فتن (ن) فتنًا وفتنت. الشئی: انگلیوں سے
 چھوئے چھوئے کپڑے کرنا۔ کہا جاتا ہے
 "فت فی ساعدہ" یعنی اس نے اس کو کمزور
 کر دیا۔ "فت فی عضدہ" یعنی اس کی
 قوت توڑ دی اور اس کے اعوان و انصار کو
 متفرق کر دیا۔
 انفتت وفتنت: ٹوٹنا۔
 الفت: مص۔ پتھر میں پھین۔ کہا جاتا ہے
 "ہم اهل بیت فت وفت وفت" یعنی وہ
 لوگ منتشر ہیں۔
 الفتنة الفتنة: خشک بیگنیاں جو توڑی جائیں
 اور چھتاق کے نیچے رکھ کر آگ روشن کی
 جائے۔ کہا جاتا ہے "ہذا لا یساوی فتنة"
 یعنی یہ بیگنی کے برابر نہیں۔ کھجوروں کا ڈھیر۔
 الفتات: چورا۔
 الفتیفة: ریزہ ریزہ شدہ چیز کا ایک کھراج
 فتایت۔
 الفتیت و الفتوت و الفتوت: چورا کیا
 ہوا۔
 فتًا (ف) فتًا. النار: آگ بجھانا۔ فتًا عن
 الامر: کسی کام سے روک دینا۔
 فتی (س) فتًا. عنه: رکنا۔ بھولنا۔ کہا جاتا
 ہے "ما فتًا (س) کو ما فتی (س) یفعل
 ذلک: یعنی ہمیشہ یہ کرتا رہا اور یہ افعال
 ناقصہ میں سے ہے اور سوائے ماضی و
 مضارع کے دوسرے افعال کا استعمال
 نہیں۔
 فتح (ف) فتحا. الباب: دروازہ کھولنا۔
 الفتاة: پانی بہنے کے لئے نالی نکالنا۔
 البلاد: ملک پر غالب ہونا۔ مالک
 ہونا۔ فتح کرنا۔ الجاحم بین الناس:
 حاکم کا فیصلہ کرنا۔ اللہ علیہ: سکھلا دینا۔

پہنچا دینا۔ سرہ علی فلان: کسی پر بھید
 ظاہر کر دینا۔
 فتحا وفتاحہ. اللہ علی فلان: مدد کرنا۔
 فتح: بمعنی فتح تشدید مبالغہ کے لئے ہے۔
 تفتح: کھلنا۔ فی الکلام. بالمال علی
 فلان: اظہار کرنا اور فخر کرنا۔ تفتحت
 الاکمة عن الشئی: کھل جانا۔ النور: کلیوں
 کا کھلنا۔ انفتح: کھلنا۔ انفتح عن الشئی:
 کھل جانا۔
 فتحة: فیصلہ کے لئے لے جانا۔ فتحة
 بالامر: پہلے مخاطب کرنا۔ فتحة فلانا: بھاؤ
 کرنا اور پچھ نہ دینا۔ فتحة البيع: بیع میں
 آسانی کرنا۔ المرأة: عورت سے جماع
 کرنا۔
 فتحة. القوم کلامًا بینہم: آپس میں چپکے
 چپکے باتیں کرنا۔
 افتح. البلاد: ملک فتح کرنا (.....)
 واستفتح. الابواب: دروازے کھولنا۔
 الامر بكذا: شروع کرنا۔ استفتح الرجل:
 مدد طلب کرنا۔
 الفتاح: فا۔ رج فتحة وفتاحون۔
 الفتاح: مص۔ مدد۔ روزی۔ دریاؤں کا
 جاری پانی۔ بہار کی پہلی بارش ج فتوح۔
 یوم الفتاح: قیامت کا دن۔ الفتاح: زبر۔
 الافتتاحیة: ادارہ اخبار۔ (ایڈیٹوریل)
 الفتوحات: لڑائی سے جو مالک فتح ہوں۔
 الفتحة: ایک مرتبہ کھولنا۔ زبر۔
 الفتاحہ: مص۔ مدد۔
 الفتاحہ و الفتاحہ: دودشمنوں کے درمیان
 فیصلہ۔ کہا جاتا ہے "بینہما فتاحات" یعنی
 ان دو کے درمیان خصوصیتیں ہیں۔
 الفتاح: کھلا ہوا وسیع دروازہ۔ کھلی ہوئی وسیع
 شیشی۔
 الفتاحی: ہوا۔
 الفتحة: کشادگی۔ مال یا علم و ادب پر ناز۔
 رج فتاح۔
 الفتحة. من الشئی: ابتدا اور اسی سے ہے

فتیحة الكتاب ج فتوح۔
 الفتوح: بہار کی پہلی بارش ج فتح۔
 الفتاح و الفتاح و الفتوح: حکومت۔
 الفتاح: اسم مبالغہ۔ حاکم۔ قاضی۔
 الاستيفتاح: مص اور حرف استفتاح:
 نحو یوں کے نزدیک والا ہے۔
 المفتح: خزانہ۔ دفینہ۔ رج مفتاح۔
 المفتح: کچی۔ رج مفتاح۔ المفتح: پانی کی
 نالی۔
 المفتاح: کچی۔ رج مفتاح۔
 فتح (س) فتحا: ڈھیلے نرم و کمزور جوڑوں
 والا ہونا۔ صفت (الفتح)
 فتح (ف) فتحا وفتح. اصابعہ: انگلیوں
 کو مروڑنا اور نرم کرنا۔
 فتح. الرجل: تھکنا اور سانس پھولنا۔
 تفتح: چھلا پھیننا۔
 الفتحة و الفتحة: چھلا۔ بغیر گلینے کے
 انگوشی۔ گلید والی انگوشی کو خاتم کہتے ہیں۔
 فتح (فتوحات و فتوح و فتاح. فتوح
 الاسد) شیر کے نیچے۔
 الافتح: نرم و کمزور ڈھیلے جوڑوں والا۔
 مؤنث فتحاء ج فتح. اسد الفتح: جوڑے
 ہاتھ پاؤں والا شیر۔ رجل افتح الطرف:
 کمزور نگاہ والا مرد۔
 الفتح و الفتحة: گٹے سے باز تک کا باطنی
 حصہ۔
 فتّر (ن ض) فتورًا وفتارًا وفتتر: تیزی
 کے بعد ساکن ہونا اور سختی کے بعد نرم پڑنا
 الماء: حرارت کم ہونا۔ عن العمل:
 کوتاہی کرنا۔
 فتورا وفتورا جسمہ: کمزور نرم جوڑوں والا
 ہونا۔
 فترة وفتورا. الحر: کم ہونا۔
 فترة (ن ض) فتورا: انگوشا اور انگشت
 شہادت کے درمیان ٹانپنا۔
 فتّر: تیزی کے بعد ساکن ہونا اور سختی کے بعد
 نرم پڑنا۔ السحاب: ٹھہرنا اور آمادہ

بارش ہونا۔ فُتْرَةٌ: سکون و نرمی پر براہِ عینت کرنا۔ فُتْرَ السَّمَاءِ: گرم پانی کی حرارت کو کم کرنا۔
 أَفْتَر: کمزور پکوں والا ہونا۔ الشَّرَابُ: شراب کا مست کر دینا۔ السَّاءُ: السُّكْرُ: بیماری یا نشہ کا کسی کو ضعیف و کمزور کر دینا۔

اِسْتَفْتَرَ: سواری چھوڑ دینے جانے کی وجہ سے ٹھکن دور ہو کر آرام پانا۔
 اَلْعَاتُوذَةُ: سامان خرید و فروخت کا تفصیلی بل جس میں قیمت سامان اور حساب لکھا ہوتا ہے۔ (بیلنس شیٹ)
 اَلْفَتْرُ: کمزوری۔ فُتْرُ: الفِتْرُ: انگشت شہادت اور انگوشا کے درمیان کھلی ہوئی حالت میں۔

اَلْفَتْرُ: آنا چھاننے کے لئے کھجور کی چٹائی۔
 اَلْفَتْرَةُ: سستی و کمزوری۔ صلح۔ بخار کے دوبارہ کے درمیان کا زمانہ۔ دو تیبوں کے درمیان کا زمانہ۔ رج فترات۔

وَالْفَتْرُ: ایک قسم کی مچھلی جس کے پکڑنے سے کچھ پیدا ہوتی ہے۔
 اَلْفِتَارُ: بھس۔ بے ہوشی کی ابتدا (امساءہ۔ فَاوْرُ) نیم گرم پانی۔

فُتْرَصَةُ فُتْرَصَةٌ: کاٹنا۔
 فَتَش (ض) فَتَشًا وَفَتَشًا: اَلْفَتَشُ: تفتیشی (انگوارسی) افر۔
 اَلْفَتْسُوشُ: وہ کھانا جو روٹی کے ٹکڑوں پیاڑا جو روٹی اور کھیر وغیرہ سے تیار کر کے پھر اس پر کھائی لگائی جاتی ہے۔

اَلْفَتَيْشُ: راکٹ۔
 اَلْفَتَاشُ: بہت تلاش و جستجو کرنے والا۔
 فَتَعَ (ف) فَتَعًا الشَّيْءُ: روند کر ریزہ ریزہ کرنا۔

تَفْتَعُ: ریزہ ریزہ ہونا۔
 فَتَفَّتْ اِلَيْهِ فَتَفَّتَةً: چپکے چپکے بات کہنا۔ کہا

جاتا ہے "ماهذه الفتفة والدندنة".
 اَلْفَتَاوُتُ: پوشیدہ اقوال۔
 فَتَق (ن ض) فَتَقًا وَفَتَقًا: الشَّيْءُ: پھاڑنا۔
 اَلْفَتُوبُ: کپڑے کی سیون توڑنا۔ اُدھیرنا۔
 اَلْمِسْكُ: مشک کی خوشبو نکالنا۔
 اَلْعَجِيْنُ: گندھے ہوئے آٹے میں خمیر ڈالنا۔

بَيْنَ الْقَوْمِ: اختلاف پیدا کرنا۔
 اَلْكَلَامُ: واضح کہنا۔
 فَتَقِي (س) فَتَقًا: اَلْمَكَانُ: سرسبز ہونا۔
 اَلْقَسْمُ: اَلْقَسْمُ: کھلے بادل پر جانا۔ قَسْرُنُ اَلشَّمْسِ: آفتاب کا بادلوں میں ظاہر ہونا۔
 اَلسَّحَابُ: بادل کا کھل جانا۔

الرَّجُلُ: مختلف مصائب و آفات والا ہونا۔
 تَفْتَقُ وَانْفَتَقُ: پھٹنا۔ وَانْفَتَقَتِ الْمَاشِيَةُ: مویشی کا موٹا ہونا۔ تَفْتَقُ فَلَانٌ بِاَلْكَلَامِ: زبان کا رواں ہونا۔

اَلْفَتَقِيُّ: بھس۔ کشادہ جگہ۔ کہا جاتا ہے "خروج فلان الى فتق" فلاں ایسے مقام کی طرف نکلا جہاں بارش نہیں اور ارد گرد میں بارش ہے۔ فَتَقُوشُ: کہا جاتا ہے "عصام ذو فُتُوق" کم بارش کا سال۔ سرسبزی۔ قحط سالی۔ زندگی میں خلل۔

اَلْفَتَقُ وَاَلْفَتَقُ: صبح۔
 اَلْفَتَاقُ: خمیر کا بڑا بیڑا۔ آفتاب۔ آفتاب کی شعاع۔ درخت خرما کی سفید جڑ۔ دو ایوں کا مرکب۔

اَلْفَتُوقُ: آفات جیسے مرض بھوک فقیری تھوڑی بارش۔
 اَلْفَتَيْقِيُّ: موٹائی سے پھٹ پڑنے والا۔
 اَلصُّبْحُ اَلْفَتَيْقِيُّ: چمکنے والی صبح۔ رَجُلٌ فَتَيْقِيُّ اَللِّسَانِ: تیز زبان مرد۔

اِمْرَاةٌ فَتَقِيَّةٌ وَفَتَقِيَّةٌ: تیز زبان۔ جلد جواب دینے والی عورت۔
 اَلْمَفْتُوقُ: مفتح فتق کی بیماری والا۔
 اَلْفَتَيْقِيُّ: دربان۔ پڑھنی۔ لوہار۔ بادشاہ۔

فَتَقُ: اَلْقَمِيْنِصُ: قمیص کا گریبان۔

اَلْفَتَاءُ: کشادہ شرمگاہ والی عورت۔
 فَتَكَ (ن ض) فَتَكًا وَفَتَكًا وَفَتَكًا: ذلیز ہونا۔ بہادر ہونا۔ نڈر ہونا۔

بِفَلَانٍ: غفلت میں پکڑنا یا قتل کرنا۔
 فِئِ اَلْاَمْرِ: کسی کام میں اصرار کرنا۔ مبالغہ کرنا۔

فَتَكَ (ن ض) فَتَوُكًا: فِي صِنَاعَةٍ: اپنے پیشے میں ماہر ہونا۔ فِئِ اَلْخَبِيْثِ: خیانت میں مبالغہ کرنا۔
 فَتَكَ: اَلْقَطْنُ: روئی دھنا۔
 اَلْفَتَكَ: اَلرَّجُلُ: بھس۔

فَاتَكُهُ مَفَاتِكُهُ: کھلم کھلا قتل کرنا فاتک الشَّيْءِ وَاَلْاَمْرِ: کسی کام کو ختم کرنا۔ ہنرمندی سے مقابلہ کرنا۔ مانگی ہوئی قیمت دینا۔

تَفْتَكُ: بِاَسْمِهِ: خود رائی سے کام کرنا اور کسی سے مشورہ نہ کرنا۔
 اَلْفَاتِيكُ: فا۔ ذلیز۔ بہادر۔ رج فتاك کہا جاتا ہے "هُوَ فَاتِيكُ الْقَلْبِ" یعنی وہ کر گزرنے والا۔ کہا جاتا ہے "مَا اَفْتَكُهُ" یعنی کس قدر جھگڑا ہو۔

فَقَل (ض) فَتَلًا وَفَقَلًا: اَلْحَيْلُ: رستی بننا۔ کہا جاتا ہے "فَقَلَّ وَجْهَهُ عَنْهُمْ" یعنی ان سے اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ "وَفَقَلَّ ذُو اَبْنَةَ فَلَانٍ" یعنی اس کو رائے سے ہٹا دیا۔ فَقَلَّ اَللَّيْلُ: چھپھانا اور مثال ہے "مَا زَالَ يَفْقَلُ مِنْ فَلَانٍ فِيْ اَلْبَدْوَةِ وَاَلغَارِبِ" یعنی وہ فلاں کے قریب دی کے لئے چکر لگاتا ہے۔

فَقِل (س) فَتَلًا: بے پیلوؤں والا ہونا۔ صفت (افعل) مَوْتٌ (فَتَلًا)

تَفَقَّلَ وَانْفَقَلَ: رستی وغیرہ کا بٹ جانا۔
 اَلْفَقْلَةُ: فصل: کا اسم مرہ۔ ہاتھ کے پٹھے کی تختی۔ بیری اور ببول کے دانہ رکھنے کا برتن۔ رج فَقَلُ۔

اَلْفَقْلَةُ: درخت عُرْفُطُ: اور عضاہ کا دانہ رج

<p>الفقیہ: سفید پھول کی ایک قسم۔ المُفْتی: فاجہ..... ماہر علم فقہ جو مسائل کا جواب دے۔</p>	<p>جنگ وجدال جفتن۔ الفْتان: بہت فتن انگیز۔ چور۔ شیطان۔ سار۔ الفتانان: چاندی وسونا۔ الفْتانۃ: مؤنث۔ فتنان: کسوٹی۔</p>	<p>فعل: کہا جاتا ہے "مما اغنی عنک فتلۃ او فتلۃ" یعنی میں تم کو کچھ بھی فائدہ نہیں دوں گا۔</p>
<p>فَتْ (ن) فْتًا. الفُفَّة: ٹوکری سے بکھیر دینا۔ الحِصَارُ بِالسَّارِدِ: ٹھنڈا کر دینا۔ جوش کم کر دینا۔</p>	<p>الفقیہین: پتھر ملی زمین کہ جس کے پتھر چلے ہوئے ہوں جیسے جفتن۔ ذَهَبُ فَيْتِنٍ: جلا ہوا سونا۔</p>	<p>الفَيْتِل: بنا ہوا۔ مؤنث فَيْتِلۃ: بھجوری گھسی کے شکاف کی باریک بتی (..... والفَيْتِلۃ) بدن کے میل کی بتی جو بدن کے ملنے سے بنتی ہے۔ کہا جاتا ہے "مما اغنی عنک فیتیلۃ" یعنی میں تم کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا۔</p>
<p>إِنْفَكُ. العَوْدُ: لکڑی کا ٹوٹنا..... الرِّجْلُ: شکستہ دل ہونا۔ نَمَرٌ (فَتْ) متفرق بھجور۔ المُفْتَنۃ: زیادتی کثرت۔</p>	<p>الفتنین: بڑھی۔ المُفْتُون: مص۔ مٹھ۔ دیوانہ۔ پاگل۔ فَمَا يَفْتَوُ فَتَوًا. الرِّجْلُ: سخاوت و جوانمردی میں غالب ہونا۔</p>	<p>الفَيْتِلۃ: بتی۔ جفتانبل و فیتلات۔ الفتال: بہت بٹنے والا..... بلبل۔ المفتل: بٹنے کا آلہ۔</p>
<p>فَقَا (ف) فَقَاً وَفَقَاً. القِلْدَرُ: ہانڈی کا جوش ٹھنڈا کرنا..... الغَضَبُ: غصہ کی تیزی کم کرنا..... الشُّيْ عَنْهُ: روکنا۔</p>	<p>فَقِي (س) قَفِي وَتَقَفِي تَقِيًا: جوان ہونا۔ فَقِي تَقِيَةً وَتَقَفِي تَقِيًا: قنیت البنت و تفتت: پردہ نشینی کرنا۔ لڑکوں کے ساتھ کھیلنے سے رکننا۔ تَقَفِي الرِّجْلُ: صاحب سخاوت ہونا۔ جوانمرد بننا۔ کہا جاتا ہے "أَبْرُو مِنْ شَيْخٍ يَفْقِي"۔</p>	<p>المفتول: مٹھ۔ مقتول الخلق: مضبوط اور گھٹا ہوا جسم والا۔ فَقَنۃ (ض) فَقَنًا وَفَقُونًا وَفَقَنۃً وَأَفَقَنۃً: تجب میں ڈالنا۔ مائل کرنا۔ فریفتہ کرنا۔ فتنہ میں ڈالنا۔ فتن الرِّجْلُ: فتنہ میں پڑنا۔ (لازم و متعری) صفت (فاتن) جفتان۔</p>
<p>أَفَنًا: ٹھکانا۔ مست ہونا..... بالمکان: اقامت کرنا..... وَإِنْفَنًا: الخَرَجُ: گرمی کا کم ہونا۔ فَفَج (ن) فَفَجًا. الشُّيْ: کم کرنا..... السَّاءُ: الخَارِبُ بِالسَّارِدِ: گرمی کم کرنا..... وَفَفَجَ وَأَفَفَجَ وَأَفَفَجَ: یوجھل ہونا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ يَحْجُرُ لَا يَفَفَجُ" فلان بحرنا پیدا کنار ہے۔</p>	<p>فَقَانِي: صاحب سخاوت ہونا۔ جوانمردی ظاہر کرنا۔ تَفَقَاتُوا إِلَى الْعَالِمِ: فتویٰ دریافت کرنے کے لئے جانا۔</p>	<p>فَقَن (ض) فُقُونًا وَفَقِنَ إِلَى النِّسَاءِ: عورتوں سے بدکاری کا ارادہ کرنا۔ فَقَن (ض) فِقْنَةً وَفَقُونًا فَلَانًا: گمراہ کرنا۔ آزما کرنا۔</p>
<p>الفَائِح: فاجہ۔ حاملہ اونٹنی ج فوائج۔ الفَائِزُ: سبک رخام کی میز۔ آفتاب کی تکیہ۔ فَرَسٌ: بڑا پیالہ۔ شرابا کابرتن۔ جاسوس۔ فَفَع (ف) فَفَعًا. رَأَسَهُ: پھوڑنا۔ فَفَج (ن) فَفَجًا. القَوَسُ: کمان کو کھینچنا۔</p>	<p>إِسْتَفْتِي اسْتَعْمَاءً. ا. العالم فی مسألة: فتویٰ طلب کرنا۔</p>	<p>فَقَن (ض) فِقْنَةً وَفَقُونًا فَلَانًا: گمراہ کرنا۔ آزما کرنا۔</p>
<p>فَفَج (س) فَفَجًا: چلنے میں تاگیوں کے درمیان کشادہ ہونا۔ صفت (أَفَج) مؤنث (فَجَاء) جفتج۔ أَفَجٌ: صَابِنٌ رَجُلِيه: کشادہ اور بعید کرنا۔ صفت (مَفَج)..... فَمِي المَشِي: جلدی چلنا۔ درہ میں چلنا۔ أَفَجٌ: سَج الأَرْضِ بِالْمَحْرَاثِ: بل چلانا۔ تَفَاجٌ: تاگیوں پھیلا کر چلنا۔ إِنْفَجَت. القَوَسُ: کمان کا کھینچ جانا۔</p>	<p>فَقَانِي: صاحب سخاوت ہونا۔ جوانمردی ظاہر کرنا۔ تَفَقَاتُوا إِلَى الْعَالِمِ: فتویٰ دریافت کرنے کے لئے جانا۔</p>	<p>فَقَن (ض) فِقْنَةً وَفَقُونًا فَلَانًا: گمراہ کرنا۔ آزما کرنا۔</p>
<p>فَفَج (س) فَفَجًا: چلنے میں تاگیوں کے درمیان کشادہ ہونا۔ صفت (أَفَج) مؤنث (فَجَاء) جفتج۔ أَفَجٌ: صَابِنٌ رَجُلِيه: کشادہ اور بعید کرنا۔ صفت (مَفَج)..... فَمِي المَشِي: جلدی چلنا۔ درہ میں چلنا۔ أَفَجٌ: سَج الأَرْضِ بِالْمَحْرَاثِ: بل چلانا۔ تَفَاجٌ: تاگیوں پھیلا کر چلنا۔ إِنْفَجَت. القَوَسُ: کمان کا کھینچ جانا۔</p>	<p>إِسْتَفْتِي اسْتَعْمَاءً. ا. العالم فی مسألة: فتویٰ طلب کرنا۔</p>	<p>فَقَن (ض) فِقْنَةً وَفَقُونًا فَلَانًا: گمراہ کرنا۔ آزما کرنا۔</p>
<p>فَفَج (س) فَفَجًا: چلنے میں تاگیوں کے درمیان کشادہ ہونا۔ صفت (أَفَج) مؤنث (فَجَاء) جفتج۔ أَفَجٌ: صَابِنٌ رَجُلِيه: کشادہ اور بعید کرنا۔ صفت (مَفَج)..... فَمِي المَشِي: جلدی چلنا۔ درہ میں چلنا۔ أَفَجٌ: سَج الأَرْضِ بِالْمَحْرَاثِ: بل چلانا۔ تَفَاجٌ: تاگیوں پھیلا کر چلنا۔ إِنْفَجَت. القَوَسُ: کمان کا کھینچ جانا۔</p>	<p>فَقَانِي: صاحب سخاوت ہونا۔ جوانمردی ظاہر کرنا۔ تَفَقَاتُوا إِلَى الْعَالِمِ: فتویٰ دریافت کرنے کے لئے جانا۔</p>	<p>فَقَن (ض) فِقْنَةً وَفَقُونًا فَلَانًا: گمراہ کرنا۔ آزما کرنا۔</p>
<p>فَفَج (س) فَفَجًا: چلنے میں تاگیوں کے درمیان کشادہ ہونا۔ صفت (أَفَج) مؤنث (فَجَاء) جفتج۔ أَفَجٌ: صَابِنٌ رَجُلِيه: کشادہ اور بعید کرنا۔ صفت (مَفَج)..... فَمِي المَشِي: جلدی چلنا۔ درہ میں چلنا۔ أَفَجٌ: سَج الأَرْضِ بِالْمَحْرَاثِ: بل چلانا۔ تَفَاجٌ: تاگیوں پھیلا کر چلنا۔ إِنْفَجَت. القَوَسُ: کمان کا کھینچ جانا۔</p>	<p>فَقَانِي: صاحب سخاوت ہونا۔ جوانمردی ظاہر کرنا۔ تَفَقَاتُوا إِلَى الْعَالِمِ: فتویٰ دریافت کرنے کے لئے جانا۔</p>	<p>فَقَن (ض) فِقْنَةً وَفَقُونًا فَلَانًا: گمراہ کرنا۔ آزما کرنا۔</p>
<p>فَفَج (س) فَفَجًا: چلنے میں تاگیوں کے درمیان کشادہ ہونا۔ صفت (أَفَج) مؤنث (فَجَاء) جفتج۔ أَفَجٌ: صَابِنٌ رَجُلِيه: کشادہ اور بعید کرنا۔ صفت (مَفَج)..... فَمِي المَشِي: جلدی چلنا۔ درہ میں چلنا۔ أَفَجٌ: سَج الأَرْضِ بِالْمَحْرَاثِ: بل چلانا۔ تَفَاجٌ: تاگیوں پھیلا کر چلنا۔ إِنْفَجَت. القَوَسُ: کمان کا کھینچ جانا۔</p>	<p>فَقَانِي: صاحب سخاوت ہونا۔ جوانمردی ظاہر کرنا۔ تَفَقَاتُوا إِلَى الْعَالِمِ: فتویٰ دریافت کرنے کے لئے جانا۔</p>	<p>فَقَن (ض) فِقْنَةً وَفَقُونًا فَلَانًا: گمراہ کرنا۔ آزما کرنا۔</p>
<p>فَفَج (س) فَفَجًا: چلنے میں تاگیوں کے درمیان کشادہ ہونا۔ صفت (أَفَج) مؤنث (فَجَاء) جفتج۔ أَفَجٌ: صَابِنٌ رَجُلِيه: کشادہ اور بعید کرنا۔ صفت (مَفَج)..... فَمِي المَشِي: جلدی چلنا۔ درہ میں چلنا۔ أَفَجٌ: سَج الأَرْضِ بِالْمَحْرَاثِ: بل چلانا۔ تَفَاجٌ: تاگیوں پھیلا کر چلنا۔ إِنْفَجَت. القَوَسُ: کمان کا کھینچ جانا۔</p>	<p>فَقَانِي: صاحب سخاوت ہونا۔ جوانمردی ظاہر کرنا۔ تَفَقَاتُوا إِلَى الْعَالِمِ: فتویٰ دریافت کرنے کے لئے جانا۔</p>	<p>فَقَن (ض) فِقْنَةً وَفَقُونًا فَلَانًا: گمراہ کرنا۔ آزما کرنا۔</p>

فَجْوَرُ: فجر میں داخل ہونا۔ مال کثیر لانا..... الْيَبُوعُ: چشمہ جاری کرنا۔
 فَلَانًا: فاجر پانا۔
 الْفَجْرُ: عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ: دشمنوں کی طرف سے بکثرت آجانا۔
 وَتَفَجَّرَ: الماءُ: پانی کا جاری ہونا۔
 الصَّحْبُ: صبح کا روشن ہونا..... بِالْعَطَاءِ: فیاضی کرنا۔ انْفَجَرَ عَنْهُ اللَّيْلُ: رات کا ختم ہونا۔
 الْفَتَجْرُ: فِي الْكَلَامِ: گھڑنا۔ بناوٹی بات کہنا۔
 تَفَجَّرَ الْقَوْمُ: گناہوں میں منہمک ہونا۔
 الْفَجْرُ: بَشْشٌ - عطیہ۔ بھلائی۔ مال و کثرت مال۔ الْفَجْرُ: مَمْسٌ - صبح کی روشنی۔ کہا جاتا ہے "طَرِيقُ فَجْرٍ" یعنی کھلا ہوا صاف راستہ۔
 الْفَجْرَةُ: فَجْرٌ: کا اسم مرہ۔ کہا جاتا ہے "رَكِبَ فَجْرَةً" وہ جھوٹ پر سوار ہوا یعنی جھوٹی بات بنائی اور یہ کلمہ تانیث اور علمیت کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔
 الْفَجْرَةُ: مِنَ الْوَادِي: وادی کا وسیع حصہ جس میں پانی بہ رہا ہو۔ فَجْرٌ: الْفَجْرَةُ وَالْمَفْجَرَةُ وَالْمُنْفَجْرُ: پانی بننے کی جگہ۔ مُنْفَجْرُ الرَّمْلِ: ریگستان میں راستہ۔
 فَجَارٌ: الْفَجْوَرُ: کا اسم ہے اور معرفہ ہے جیسے "فَحَمَلْتُ بَوَّةً وَاحْتَمَلْتُ فَجَارًا" اور عورت کے لئے بھی فَجَارٌ: بمعنی فاجرہ آتا ہے اور صرف نداء ہی کی صورت میں استعمال ہوتا ہے۔
 الْفَيْجَارُ: کشادہ راستے جو دو پہاڑوں کے درمیان ہوں۔
 الْفَاجِرُ: فَاجِرًا: زانی۔ گناہوں کا تابع دار۔ جاوہ گرن فَاجِرُونَ وَفَجْرَةٌ وَفَجَارٌ: الْفَاجِرَةُ: مَوْتٌ فَاجِرٌ: کہا جاتا ہے "يَمِينٌ فَاجِرَةٌ" یعنی جھوٹی قسم۔
 الْفَجْوَرُ: زَانِيَةً: زانی۔ گناہوں میں منہمک

فَتَجَّ: الرَّجُلُ: درے میں چلنا۔
 الْفَيْجُ: دَرَّةٌ: دو پہاڑوں کے درمیان کشادہ راستہ۔ فَجَجَ: الْفَيْجُ: دَرَّةٌ: دو پہاڑوں کے درمیان کشادہ راستہ۔
 الْفَيْجُ وَالْفَيْجَاخَةُ: مِنَ الْفَوَاكِهَةِ وَغَيْرِهَا: کچا میوہ وغیرہ۔
 الْفَيْجَةُ: دو پہاڑوں کے درمیان کشادگی۔ کہا جاتا ہے فَلَانٌ يَمْشِي (مُفَاجًا) یعنی فلاں ٹانگیں پھیلائے ہوئے چلتا ہے۔
 الْاَلْفَيْجِيَّةُ: کشادہ وادی۔ تنگ و گہرا۔
 الْفَيْجِيَّةُ: كَابِلٌ وَسُوسٌ لَوْدٌ - ایسے لوگ جن کی صحبت کو ناپسند کیا جائے۔
 فَجَا (ف) وَفَجِي (س) فَجَا وَفَجَاةٌ وَفَجَاةٌ وَفَاجًا مُفَاجَاةً وَفَتَجًا اِفْتِجَاءً: الرَّجُلُ: اِجَاكٌ آجانا۔ جلدی کرنا۔ الْفَجَاةُ: مَمْسٌ - اچانک۔
 حَرْفُ (الْمُفَاجَاةِ) لَفْظًا: ذَا: ہے جیسے حَرْبٌ إِذَا الْأَسَدُ بِالْبَابِ: اور اس کو الْفَجَايَةِ: بھی کہا جاتا ہے۔
 فَجَز (ن) فَجْوَرًا: الْمَاءُ: پانی بہانا۔ جاری کرنا۔ الْقَنَاةُ: تَابِي تْكَانَا۔
 الْمَاءُ الْفَيْجَرُ: فَجْرٌ طَلُوعٌ كَرْنَا فَلَانًا: جھٹلانا۔ نا فرمانی کرنا۔ مَخَالَفَتٌ كَرْنَا۔
 فَجَز (ن) فَجْوَرًا: عَنِ الْحَقِّ: تجاؤز کرنا۔ عَنْ سُرُوبِهِ: زین سے ایک طرف کو جھک جانا۔
 فَجَز (ن) فَجْوَرًا وَفَجْوَرًا: جھوٹ بولنا۔ زنا کرنا۔ گناہ کرنا۔ کزور نگاہ والا ہونا.....
 أَمْرُهُمْ: بگڑنا۔ خراب ہونا۔
 مِنْ مَرَضِهِ: صحیح و تندرست ہونا۔
 فَجَز (س) فَجْوَرًا: فیاضی کرنا۔
 فَجَزَ: الْمَاءُ: پانی بہانا جاری کرنا۔ تشدید مبالغہ کے لئے ہے۔ السَّرْجَلُ: بدکاری کی طرف نسبت کرنا۔
 فَاجِرٌ فَجَارًا وَمُفَاجِرَةٌ: الْمَرْأَةُ: زنا کرنا۔
 الْفَجْرُ: جھوٹ بولنا۔ زنا کرنا۔ کفر کرنا۔ حق

أَفْجِن: سداب کھانے کی مداومت کرنا۔
 الْقَيْجِن: سداب (ایک قسم کی گھاس)
 فَجَا يَفْجُو فَجْوًا: الباب: دروازہ کھولنا
 الْقَوْسُ: کمان کھینچنا۔
 فَجَى يَفْجِي فَجًا: پنڈلیوں یا پیروں کے
 درمیان دوری کرنا۔ صفت (أَفْجِي)
 مَوْنَتْ فَجَوَاءَ فَجِيتِ الْقَوْسُ: کمان کا کھینچنا
 ہوا ہونا۔ السَّاقَةُ: اونٹنی کا بڑے پیٹ والی
 ہونا۔
 تَفَاجَى: کشادہ جگہ ہونا۔
 أَنْفَجَى: الباب: دروازہ کھلنا..... الْقَوْمُ عَنْ
 فَلَانٍ: علیحدہ ہونا۔ ہٹ جانا۔ الْقَوْسُ: کمان
 کھینچ جانا۔
 الْفَجْوَةُ: دو چیزوں کے درمیان کشادگی۔
 مکان کا میدان۔ صحن۔ کشادہ جگہ۔ ج
 فَجَوَاتٌ وَفَجَاءٌ.
 الْفَجْوَاءُ: مَوْنَتْ أَفْجِي: کشادہ زمین۔
 فَجِي يَفْجِي فَجِيًا: بمعنی فَجِي الْوَادِي.
 فَجِي تَفْجِيَةٌ: الشَّىءُ: ظاہر کرنا۔ ننگا کرنا۔
 الشَّىءُ غَنَةً: زور کرنا۔ علیحدہ کرنا۔
 أَفْجِي الْأَجَاءَ: الرَّجُلُ: پال بچوں پر خرچ
 میں وسعت کرنا۔
 فَحَّ (ن ض) فَحًا وَفَحِيحًا وَتَفَحَّاحًا
 السَّائِمُ: سونے والے کا خراٹے لینا.....
 الْأَفْعَى: سانپ کا پھینکا کرنا۔
 فَحَّةٌ: الْفَلْفَلُ: مریخ کی تیزی۔
 الْفَحْحُ: پھینکانے والے سانپ۔
 الْفَحْحِيحُ: موص۔ فَحِيحُ الْأَفْعَى: سانپ
 کے منہ کی آواز۔
 فَحَّجَ (ف) فَحَجًا: تکبر کرنا۔
 فَحَّجَ (س) فَحَجًا وَفَحَّجَةً وَفَحَّجَ فِي
 مَشْيِهِ: قدم کے اگلے حصہ کو قریب اور
 ایڑیوں کو دور کرنا۔ صفت (أَفْحَجَ) فَحَّجَ
 وَجَلِيهَ: ناگوں کو پھیلا نا۔
 أَفْحَجَ: عَنِ الْأَمْرِ: رکنا۔ ہٹ جانا۔
 تَفْحَجَ: الرَّجُلُ: ناگوں کو پھیلا نا۔
 إِنْفَحَجَتْ: سَاقَاهُ: کشادہ و بعید ہونا۔

فَحَسَ (ف) فَحْسًا: الشَّىءُ: مِنَ الْمَاءِ
 وغیرہ: ہاتھ میں لے کر زبان سے چاٹنا۔
 جوں کو ہاتھ سے ملنا۔
 تَفْحَسَ: فِي مَشْيِهِ: ناز سے چلنا۔
 فَحَسَ (ك) فَحْسًا وَفَحَّاشَةً الْأَمْرُ: بُرَا
 ہونا۔ فَحَسَتْ الْمَرْأَةُ: قبیح ہونا اور یوڑھی
 ہونا۔
 فَحَسَ بِهِ: طعن و تشنیع کرنا۔
 أَفْحَسَ وَتَفَاحَشَ: بُرَى بَات كَهْنَا: بُرَى
 بات کرنا۔ أَفْحَسَ الرَّجُلُ: بخل کرنا۔
 تَفَاحَشَ الْأَمْرُ: قباحت میں زیادہ ہونا۔
 تَفْحَسَ: عَلَيْهِمْ بِلِسَانِهِ: بدکلامی کرنا۔ گالی
 سنانا۔
 الْفَاحِشُ: قبیح۔ بدخلق۔ بہت بخل۔ ہر وہ
 چیز جو حد سے بڑھ جائے۔ کہا جاتا ہے غَبْنُ
 فَاحِشٌ: جبکہ اتنا زیادہ نقصان ہو جائے جو
 عادتاً برداشت نہ کیا جاسکتا ہو۔ رَجُلٌ
 فَاحِشٌ: یعنی قول یا جواب میں حد سے
 گزرنے والا مَوْنَتْ فَاحِشَةٌ.
 الْفَاحِشَةُ: زنا۔ بہت سخت قبیح گناہ ج
 فَوَاحِشُ.
 الْفَحَّاشَاءُ: زنا۔ بہت سخت قبیح گناہ۔
 الْفَحَّاشُ: فَاحِشُ كَالِاسْمِ مَبَالِغٌ مَوْنَتْ
 فَحَّاشَةً.
 الْفَحْحُ: موص۔ قبیح قول یا فعل۔
 الْمُتَفَحِّشُ: بد زبان بے جا۔
 فَحَصَ (ف) فَحْصًا: غَنَةً: بقتیش کرنا۔
 کھود کرید کرنا..... الْمَطَرُ: التَّرَابُ: بارش کا
 مٹی کو اٹ پلٹ دینا..... السَّرَابُ: کھودنا
 بِرَجْلِهِ: پاؤں سے کھودنا۔ الطَّنِي: ہرن
 کا تیز دوڑنا..... لِلشَّخْزَجَةِ: روٹی کے لئے
 آگ میں جگہ بنانا۔
 فَاحِصَةٌ فَحَاصًا وَمُفَاحِصَةٌ: ایک دوسرے
 کے عیوب اور بعیدوں کی تلاش و جستجو کرنا۔
 فَحِصَةٌ وَأَفْحَصَهُ: غَنَةً: دور کرنا۔
 تَفْحَصَ وَتَفْحَصَ: غَنَةً: کھود کرید کرنا۔
 الْفَحْصُ: موص امتحان۔ ہر رہنے کی جگہ۔ ج

فُحُوصُ.
 الْمَفْحِصَةُ: حَفِصُ: كَالِاسْمِ مَرَّةً: چاہ
 زرخندان۔
 الْفَحِيصُ: ساتھی کے عیب اور بعید کی ٹوہ میں
 رہنے والا۔
 الْفَحَاصُ: بہت تلاش و جستجو کرنے والا۔
 الْمَفْحِصُ: گڑھا جو سنگ خوار نے اٹھنے
 دینے کے لئے بنایا ہو ج مَفَاحِصُ کہا جاتا
 ہے لَيْسَ لَهُ مَفْعُصٌ قَطَاةً.
 الْأَفْحُوصُ: بمعنی مَفْحِصُ جَ أَفَاحِصُ.
 فَحَصَ (ف) فَحْصًا: تُوْرْنَا: اکثر اس کا
 استعمال تر چیز کے لئے آتا ہے جیسے گلری
 وغیرہ۔
 فَحْفَحَ: خراٹے لینا۔ آواز پڑ جانا۔
 الْفَحْفَاحُ: وہ شخص جس کی آواز بڑھ گئی ہو۔
 بہت بولنے والا۔ مَوْنَتْ فَحْفَاحَةً.
 أَرْضٌ (فَيَحْقُ) كَشَادَةٌ زَمِينُ.
 إِنْفَحَقَ: كَشَادَةٌ هُونَا.
 فَحَلَّ (ف) فَحْلًا وَفَحْلًا: إِبِلُهُ فَحْلًا
 كَرِيْمًا: عمدہ سائڈ چھتی کے لئے ڈھونڈنا۔
 تَفْحَلُ: سائڈ کے مشابہ ہونا..... الشَّجَرُ:
 درخت کا بے پھل ہونا۔
 إِسْتَفْحَلُ: الْأَمْرُ: بُرَا هُونَا: إِسْتَفْحَلَتْ
 النِّخْلَةُ: درخت خرما کا زکھور جیسا ہونا۔
 الْفَحْلُ: سائڈ۔ زہر حیوان کا۔ ج فَحْوَلُ
 وَأَفْحَلُ وَفِحَالٌ وَفِحَالَةٌ وَفَحْوَلَةٌ فَحْوَلُ
 الشَّعْرَاءُ: فضیلت رکھنے والے شعراء۔ ججو
 کرنے میں غالب ہونے والے شعراء۔
 الْفَحْلُ وَالْفِحَالُ: زکھور ج فَحَاجِلُ.
 الْفَحْلَةُ مِنَ الْبِنَاءِ: تیز زبان عورت۔
 ایسے اخلاق والی جو جنس عورت کے لائق نہ
 ہو۔
 الْفِحْلَةُ وَالْفَحْوَلَةُ وَالْفِحَالَةُ: مردانگی۔
 الْفَحِيلُ: بمعنی فحل: صاحب مردی۔ فحلُ
 فَحِيلُ: شریف۔
 فَحَمَ (ف) فَحْمًا: جَوَابٌ سَاكِتٌ
 ہوتا۔

فَحَمَّتْ (ن) فَحْمًا. البُرُ: پالی ٹھہر جانا۔
 فَحِمَّ (س) وَفَحِمًا فَحْمًا وَفَحَامًا وَفَحْوَمَا وَفَحْمًا. الضَّبِّي: بچے کا روتے روتے آواز بند ہونا۔
 فَحَمَّ (ك) فَحْوَمَا وَفَحْوَمَةً: کالا ہونا۔
 فَحَمَّ الشَّيْءُ: کالا کرنا۔
 أَفْحَمَهُ: دلیل دے کر خاموش کر دینا۔ کہا جاتا ہے "هَاجَاهُ فَأَفْحَمَهُ" وَوَجَدَهُ مُفْحَمًا" یعنی اس کی ہجو کی اور خاموش کر دیا یا خاموش پایا یعنی وہ شعر کہنے پر قادر نہیں تھا۔
 أَفْحَمَ الرَّجُلُ: عشاء کے وقت کی تاریکی میں داخل ہونا۔ أَلْهَمَ الشَّاعِرَ: غم نے شعر کہنے سے منع کر دیا۔
 الفحَمُ والفحَمُ والفحِيمُ: کوند۔
 الفَحْمَةُ: کوندے کا ٹکڑا۔ فحمة الليل: سخت تاریکی ج فحام وَفَحْوَمُ. الفَحْوَمَةُ: سیاہی۔
 الفَحَامُ: کوندے بیچنے والا۔ ج فَحَامَةٌ. الفَحْوَمُ: جواب نہ دے سکنے والا۔
 الفَاجِمُ: فَا۔ مَاءٌ فَاجِمٌ: ٹھہرا ہوا پانی۔
 الفَاجِمُ وَالْفَجِيمُ: کالا۔
 المُفْجِمُ: فَا۔ جواب مفحَم: خاموش کر دینے والا جواب۔
 المُفْحِمُ: مفع لا جواب۔ شعر نہ کہہ سکنے والا۔
 المُفْحَمَةُ: کوندے کی جگہ۔
 فَحَا يَفْحُو فَحْوًا وَفَحِي. بِكَلَامِهِ إِلَى كَسَدًا: اپنے کلام سے کسی مضمون کی طرف اشارہ کرنا۔
 الفَحَا وَالْفَحِي: سالہ یا خشک سالہ ج أَفْحَاءُ. الفَحْوَى وَالْفَحْوَاءُ وَالْفَحْوَاءُ. مِنَ الْكَلَامِ: مضمون کلام ج فحواو. فَحَّتْ (ض) لَفْحًا وَفَحَّةً وَفَحْنًا وَفَحْلًا: ناگلوں کا کزور ہونا۔ صفت (الْفَحُّ) مَوْنٌ فَحَاءُ ج فَحٌّ.

فَحَّ (ن) فَحًّا وَفَحِيحًا أَفْحًا. النَّائِمُ: خراٹے لینا۔ فحخت الافعى: سانپ کا پھینکارنا۔ الزَّايِحَةُ: خوشبو کا بھڑکانا۔
 الفَحَّ: جال۔ ج فَحَاخ وَفَحُوخ: کہا جاتا ہے "وَلَبَّ فَلَآنَ مِنْ فَحِّ الشَّيْطَانِ" یعنی تو یہ کر لیا۔
 السَّفْحَةُ: خراٹے لینے والے کی نیند۔ گندی عورت۔
 فَحَّتْ (ف) فَحْتًا. السَّفْفُ: چھت میں سوراخ کرنا۔ زَائِسَهُ بِالسَّيْفِ: سر پر تلوار مارنا۔ الشَّيْءُ: کائنات۔ الْإِنْسَاءُ: برتن کھولنا۔ فَحَّتِ الرَّجُلُ: جھوٹ بولنا۔
 فَحَّتَبَ: الفَاخْتَةُ: فاختہ کا کوکو کرنا۔
 تَفَحَّتْ: فاختہ کی چال چلنا۔ تعجب کرنا۔
 إِنْفَحَّتْ. السَّفْفُ: چھت کا سوراخ دار ہونا۔
 السَّفْحَتُ: مص۔ جال۔ چھت میں گول سوراخ چاند کی روشنی یا اس کا سایہ۔
 الفَاخْتَةُ: فاختہ۔ ج فَوَاخِتُ. فَحَّجَّ (ف) فَحْحًا. الرَّجُلُ: تکبر کرنا۔
 فَلَاتَا بِهِ: ڈیک مارنا اور بڑائی ظاہر کرنا۔
 فَحَّجَّ (س) فَحْحًا: جدا جدا رانوں والا ہونا۔ صفت (الْفَحْحُ)
 فَحَّذَهُ (ف) فَحْذًا: ران پر ران۔ ران کو توڑنا۔ فَحَّذَ: اس کی ران توڑ گئی۔
 فَحَّذَ قَوْمَهُ: قبیلے قبیلے کو پکارنا۔ بَيْنَهُمْ: جدا جدا کرنا۔ السَّقْوَمُ عَنْ فَلَآنَ: مدد نہ دینا۔ فَلَاتَا: قبیلے سے بھگا دینا۔
 تَفَحَّذَ: معاملہ سے ہٹ جانا۔ تَفَحَّذَهُ: کسی کی ران پر ران رکھنا۔
 اسْتَفَحَّذَ: جھک جانا۔ مطع ہو جانا۔
 السَّفْحَدُ الْفِخْدُ وَالْفِخْدُ: ران کلمہ مَوْنٌ ہے ج أَفْحَادُ.
 السَّفْحَدُ: قبیلہ ج أَفْحَادُ: یہ کلمہ نہ کرے۔
 فَخَّرَ (ف) فَخْرًا وَفَخْرًا وَفَخَارًا وَفَخَارَةً وَفَخَارَةً: فخر کرنا۔
 وَفَخِيرِي فَخِيرًا وَالْفَخِيرُ: فخر کرنا۔

فَخْرَةٌ: فخر کرنے میں غالب ہونا۔
 فَخْرَةٌ (ف) وَفَخْرَةٌ وَالْفَخْرَةُ: عَلِي فَلَانُ: فخر کرنے میں فضیلت دینا۔
 فَخْرٌ مِنْهُ (س) فَخْرًا وَتَفَخَّرَ: تکبھنا۔ تاک چڑھانا۔ تکبر کرنا۔
 فَخْرَةٌ فَخَارًا وَمُفَاخْرَةٌ: فخر کرنے میں غالب ہونا۔
 تَفَاخَرُوا الْقَوْمُ: بعض کا بعض پر فخر کرنا۔ ہر ایک کا دوسرے کے مفاخر پر فخر کرنا۔
 اسْتَفَخَّرَ الشَّيْءُ: قابل فخر سمجھنا۔ قابل فخر بنانا۔
 الْفَخْرُ وَالْفَخْرُ: مص فضیلت بڑائی۔
 الْفَخْرَةُ: فخر۔
 الْفَاخِرُ: ہر چیز میں کا عمدہ۔
 الْفِخِيرُ وَالْفِخِيرَةُ: بہت فخر کرنے والا تاتا مبالغہ کے لئے ہے۔
 الْفَخْوَرُ وَالْفَخِيرُ: فخر کرنے والا الْفَخِيرُ: فخر کرنے میں مغلوب۔
 الْفَخْسَارُ: ٹھیکری۔ کچی ہوئی مٹی۔ واحد (فَخْسَارَةٌ)
 الْفَخْسَارِيُّ: ٹھیکری بیچنے والا کہہا۔
 الْفَاخْوَرُ: ایک قسم کا پھول ج فَيَاخِيرُ. السَّفْحْرَةُ وَالْمَفْحْرَةُ: افعال حمیدہ۔ وہ چیز جس پر فخر کیا جائے۔ ج مَفَاخِرُ. فَخَّرَ (س) فَخْرًا وَفَخْرًا وَتَفَخَّرَ: تکبر کرنا۔ بڑائی ظاہر کرنا۔
 الْفَخْرُ: مص۔ فضیلت۔
 فَخَسَّ (ف) فَخْسًا. الْأَمْرُ: ضائع کرنا۔
 فَخَسَّخَ فَخْسًا فَخْسَةً. الرَّجُلُ: لغو و باطل کرنا۔
 الْفَخْسَخَةُ: مص۔ کاغذ یا نئے کپڑے کی کھڑکھاہٹ۔
 تَفَخَّسَلَ: علم و وقار ظاہر کرنا۔ عمدہ کپڑے پہننا۔
 فَخَّمَ (ك) فَخْمَةً: موٹا ہونا۔ عظیم المرتبہ ہونا۔
 فَخَّمَ: تعظیم کرنا۔ فَخَّمَ الْحُرُوفَ فِي اللَّفْظِ: حروف کو پڑھنا۔

الفَحْمُ: عظیم المرتبہ..... مِنَ الْمَنَاطِقِ:
درست بات۔
الفُحْمِيَّةُ: بڑائی۔ برتری۔ الافْحَمُ: اعظم۔
بڑے مرتبہ والا۔
فَحْدٌ (ض) فَحْدِيْنَا، الرَّجُلُ: آواز بلند
کرنا۔ دوڑنا..... الْحَالِيْسُ: پرندہ کا
پھڑ پھڑانا۔ فِدَتِ الْاِبِلِ: اونٹ کا زمین کو
کھروں سے روندنا۔
فَحْدٌ: خرید و فروخت میں چلانا۔ تکبر و غرور
سے چلنا۔
الْفَحْدَانُ: متکبر۔ بہت چلانے والا۔ بہت
روندنے والا۔ سیکڑوں سے ہزار تک
اونٹوں کا مالک ج فَحْدَانُونَ۔ الْفَحْدَانُونَ:
چرواہے۔ اونٹ والے۔ گائے بیل والے
کاشتکار اور ان کے علاوہ جن کی آواز کھیتی
باڑی اور مویشی میں بلند ہوتی ہے۔
الْفَحْدَانَةُ: مونت۔ فَحْدَانُ: مینڈک بڑول۔
فَحْدَحٌ (ف) فَحْدَحًا، الْأَمْرُ وَالْحَمَلُ
اَوِ الْاِسْتِئْذَانِ: کسی معاملہ کا یا حمل کا یا قرض کا
گرا نبار بنا دینا۔
أَفْدَحٌ وَاسْتَفْدَحَ: الْأَمْرُ: بوجھل پانا۔
الْفَادِحُ: مشکل جو بوجھل کرنے والا ہو۔ کہا
جاتا ہے "نَزَلَ بِهِ أَمْرٌ فَادِحٌ وَرَكِبَ ذَيْنِ
فَادِحٍ" اس پر امر گرا نبار آ پڑا۔ اس پر قرض
گرا نبار ہو گیا۔
الْفَادِحَةُ: مصیبت ج فَوَادِحُ،
فَوَادِحُ النَّهْرِ: مصائب زمانہ۔
فَدَحٌ (ف) فَدَحًا، الشَّيْءُ: توڑنا۔
الْفَوْدَةُ: تازہ نکڑی توڑنا۔
فَدْرٌ (ض) فَدْرًا وَفَدْرًا، اللَّحْمُ
الْمَطْبُوحُ: کپے ہوئے گوشت کا ٹھنڈا ہونا۔
فَدَّرَ: الْحِجَارَةُ: چھوٹے بڑے پتھر توڑنا۔
تَفَدَّرَ: الْحِجَرُ: پتھر کا ٹوٹنا۔
الْفَدْرُ: پہاڑی بکرا۔ ج فُدُورُ،
الْفُدُورُ: پہاڑی بکراج فُدْرُ،
الْقَدِيرُ: بے وقوف۔ جلدی ٹوٹنے والی
نکڑی۔

الْفِدْرَةُ: کپے ہوئے گوشت کا سرد نکلا۔ پہاڑ
کا ایک حصہ۔ رات کا ایک نکلا۔ ج فِدْرٌ،
الْفِدْرَةُ: قوم سے علیحدہ رہنے والا۔ تنہا چلنے
والا۔
الْفِدْرُ: چاندی۔ مونا لڑکا۔
الْفَادِرُ: پکا ہوا ٹھنڈا گوشت۔ پہاڑی بکرا۔
علیحدہ رہنے والی اونٹنی ج فُدْرٌ وَفَوَادِرٌ
وَفُدُورٌ،
الْفَادِرَةُ: مونت فادیر: پہاڑ کی چوٹی پر بڑی
چٹان۔
الْمَفْدَرَةُ: بہت سے پہاڑی بکروں کی جگہ۔
أَفْدَسٌ، الرَّجُلُ: کسی کے گھر یا دروازہ پر
مکڑیوں کا ہونا۔
الْفُدْسُ: مکڑی۔ ج فِدْسَةٌ،
الْفَيْدَسُ: مٹکا۔ بڑا گھڑا۔
فَدَشٌ (ن) فَدَشًا، رَأْسُهُ: سر پھوڑنا۔
فَدَشَهُ (ض) فَدَشًا: دفع کرنا۔
الْفَدَشُ: مادہ مکڑی۔
فَدِعٌ (س) فَدَعًا: میڑھے جوڑوں والا
ہونا۔ صفت (أَفْدَعُ) مونت (فَدَعَاءُ) ج
فَدَعٌ،
فَدَعَةٌ (ف) فَدَعًا: کپلنا یا تھوڑا پھاڑنا۔
فَدَعَةٌ: میڑھے جوڑوں والا کر دینا۔
الْفَدَعُ: ہاتھ یا پیر کے جوڑ میں کچی جوڑوں
کی کچی۔
الْفَدَعَةُ: جوڑوں کی کچی کی جگہ۔
فَدَعَةٌ (ف) فَدَعًا: توڑنا۔
أَفْدَعُ: ٹوٹنا..... الشَّيْءُ الْيَابِسُ: نرم ہونا۔
الْمَفْدَعُ: توڑنے کا آلہ ج مَفْدَعٌ،
فَدَعٌ فَدَعَةٌ: آواز بلند کرنا۔ بھاگتے ہوئے
دوڑنا۔
الْفَدْفَدُ: سخت آواز والا۔ بلند آواز والا۔
بہت زیادہ روندنے والا۔ الْفَدْفَدُ: جما ہوا
دودھ۔
فَدَكٌ، الْقَطْنُ: روئی دھنا۔ فَدَكَةُ الْقَطْنِ:
روئی دھنونا۔
فَدَمٌ (ض) فَدَمًا الْاِثْرِيْقُ وَعَلَى الْاِثْرِيْقِ:
چھاگل پر سر بند لگانا۔

فَدَمٌ (ك) فَدَمًا وَقَدَامَةً: بے وقوف
ہونا۔
فَدَمٌ وَأَفْدَمٌ، فَمَ الْاِثْرِيْقِ: برتن پر سر پوش
رکھنا۔
الْفَدَمُ: کلام میں عاجز۔ بے وقوف۔ کم سمجھ۔
گاڑھے خون والا۔ ج فِدَامٌ: گہرے سرخ
رنگ والا مونت فَدَمَةٌ،
الْفِدَامُ وَالْفَدَامُ: چھوٹی سی چھلی یا کپڑا جو
لوٹے وغیرہ کے منہ پر باندھ دیں تاکہ جو
کچھ اس میں ہے صاف ہو جائے ج فَدَمٌ،
الْفَدَامُ وَالْفَدَامَةُ وَالْفَدُومُ بمعنی الْفِدَامُ،
الْفِدَامُ وَالْفَدَامَةُ: چھینکا جو اونٹ کے منہ پر
باندھ دیں تاکہ کاٹ نہ سکے یا کھانہ سکے۔
الْمَفْدَمَاتُ: قبضے والے لوٹے۔ مٹکے۔
فَدَنٌ، الْاِبِلُ: اونٹ کو مونا کرنا..... الْبِنَاءُ:
عمارت کو بلند کرنا..... الْفَسُوبُ: کپڑے کو
سرخ رنگنا۔
الْفَدْنُ: سرخ رنگ۔ بلند عمارت ج أَفْدَانُ،
الْفَدَانُ وَالْفَدَانُ: بیلیوں کی جوڑی جو بیل
میں جتے ہوئے ہوں۔ ج فَدْنٌ وَأَفْدَانَةٌ،
وَالْفَادِيْنُ، الْفَدْنُ: کھیتی۔ وَفِي الْمَسَاحَةِ:
چار سو مربع زمین۔
الْفَادِنُ، فِي اصْطِلَاحِ الْبَنَائِيْنَ سَاهِلٌ ج
فَوَادِنُ،
الْفَدُوْنُكْسُ: شیر۔ مضبوط مرد۔
فَدَى يَفْدِي فَدًى وَفَدًى وَفَدَاءَ الرَّجُلِ
مِنْ الْاَسْرِ وَنَحْوِهِ: مال وغیرہ دے کر
چھڑانا۔ صفت فاعلی (فَادٍ) اور صفت مفعولی
(مَفْدِيٌّ) کہتے ہیں "فَدَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا
مِنْ زَوْجِهَا" یعنی عورت نے مال دے کر
طلاق لے لی اور چھٹکارا حاصل کر لیا۔
فَدَى وَفَدًى تَفْدِيَةً، فَلَانَا بِنَفْسِهِ: اپنے
متعلق کہنا کہ میں تمہارے اوپر فدا کیا
جاؤں۔
فَادًى فِدَاءً وَمَفَادَةً، الرَّجُلُ: چھوڑ دینا
اور فدیہ لے لینا۔ چھڑانا۔

فَدَى إِفْدَاءً: فَلَانَا الْأَسِيرُ: کسی سے قیدی کا فدیہ قبول کرنا..... الزَّجْلُ: مونا ہونا۔	تَفَذَّدَ وَاسْتَفَذَّ: بِالْأَمْرِ: خود رانی کرنا۔
تَفَادَى تَفَادِيًا الْقَوْمُ: ایک دوسرے پر فدا ہونا۔ بعض کا بعض کے ذریعے سے بچنا۔	الْفَذُّ: مَصٌّ - اَكِيلًا - جَوَّعَ كَيْ تَبْرُونَ مِنْهُ: پہلا تیرج اَفْذَاذٌ وَفُذُوذٌ وَكَلِمَةٌ (فُذَّةٌ وَفَاذَةٌ) کلمہ شاذہ۔
الزَّجْلُ مِنْ كَذَا: پرہیز کرنا اور یکسو ہونا۔	الْإِفْدَاءُ: بے پرک تیر۔ کہا جاتا ہے "اَتَكَلْنَا فُذَاذِي وَفُذَاذِي وَفُذَاذًا وَفُذَاذًا" یعنی ہم نے جدا جدا ہو کر کھایا۔
إِفْتَدَى: بِدَى: فِدْيَةً..... مِنْهُ بِكَذَا: پرہیز کرنا۔ کہتے ہیں افتدت المرأة نفسها من زوجها: یعنی عورت نے مال دے کر طلاق لے لی اور چھکارا حاصل کر لیا۔	فُذِّذَ فُذِّذَةً: اِجَابَتَكَ كَوَدْنِي كَلَيْ سَمْتًا: فَذَلِكَ فَذْلِكَ: الْحَسَابُ: فَارُغٌ يُونَا۔ الفَذْلِكَةُ: مَصٌّ - مِيرَاثُكَ كَاخْلَاصِهِ: حساب کا ہو یا کسی اور چیز کا (مولد) فَرٌّ (ض) فَرًّا وَفِرَارًا وَمَفْرًا مَفِيرًا: بھاگنا۔ پوہ دوڑنا۔
الْفِدَايُ: عِبَادِي عَقِيدِهِ كَالْمَطَابِقِ حَضْرَتِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ كَالْقَبْلِ: یعنی بقول ان کے اپنی جان کریم دے کر انسانی جرائم کا فدیہ بنے۔	فَرٌّ (ن) فَرًّا وَفِرَارًا وَفِرَارًا: السَّادِيَّةُ: جَانُورُ كِي عَمْرُ مَعْلُومُ كَرْنِي كَلَيْ دَانْتُو كُو كِيْنَا..... اَلِي الشَّيْءُ: جَانَا..... عَنِ الْأَمْرِ: كُحُو كَرِي كَرْنَا۔ كَمَا جَانَا بِي "فَرُّ الْأَمْرِ جَذْعًا" مَعْلَمًا اِنِّي پَهْلِي حَالَتِ پَرُوْتِ آيَا۔
الْفِدَائِيُّ: خَطِرْنَا كَمَقَامَاتِ وَمِهْمَاتِ پَرَاپِنِي جَانَا كَانْزَرَانِي پَرِيش كَرْنِي وَاللَا۔	فَسَارِزْنَةُ: مِيں نِي اَسْ كِي حَالِ كِي اَوْرَا سِ نِي مِيْرِي كِي حَالِ كِي تَحْقِيْقِ كِي۔
الْمُفَادَاةُ: كَرْمَارِ قَيْدِي كِي بَدَلِي قَيْدِي كَا تَبَاوَلِي كَرْنَا۔	أَفْرَأْفِرَارًا: رَاسَةً بِالسَّنِيْفِ: تَلَوَارِي سِرِّ بھار دینا۔ أَفْرَتِ النَّخِيْلِ اَوِ الْإِبِلِ: اَوْنَتِ يَا كُحُوْرِي كَا دُوْدُ كِي دَانْتِ كَرْنَا۔ أَفْرَةٌ: بھگانا۔
التَّفَادِيَةُ: كَرْمَارِ قَيْدِي كِي بَدَلِي قَيْدِي كَا تَبَاوَلِي كَرْنَا۔	تَفَارًا: الْقَوْمُ: اِيَكِ دُوسَرِي سِي بھَاگْنَا۔
الْفِدَاءُ: حَمٌّ - مَوْنَا پَا - دُحِيْر - اِنْبَارِ جُوگِي پُوں كُجُورِ وَغِيْرِهِ رَكْنِي كَا بَرْتَن - تَا جَرِ كِي سَامَانِ وَغَلِي وَغِيْرِهِ كِي جَد - حِ اَقْدِيَّةُ۔	تَفَرَّرَ: بِالشَّيْءِ: بِنْتَا۔
الْفِدَاءُ وَالفَدَى وَالفَدَى: مَصٌّ - مَالِ جُو چھڑانے كِي لِي دِيَا جَانِي كَمَا جَانَا بِي "فَدَى لَكَ اِبْنِي وَفَدَاكَ اِبْنِي" لِيْنِي مِيں تَبھارِي اُو پَرَاپِنِي بَا پِ كُو فِدَا كَرْنَا ہُوں اُو رِ	اِفْتَرَّ: الْبِرْقُ: بِنَجَلِي كَا چَكْنَا۔ آهْتَا آهْتَا بِنْتَا..... الشَّيْءُ: سُوگھْنَا۔
اس جملہ سِي دَعَا اُو رَا تَلْبَارِ مَحَبَّتِ اُو تَعْرِيفِ وَ تَوْصِيْفِ كَا ارَادِي كَرْتِي مِيں اُو رِ كِي كِي فَعْلِ مَحْذُوفِ ہُوْتَا ہِي اُو رِ صَرْفِ حَرْفِ بَا كُو بَاتِي رَكْنِي مِيں اُو رِ كِي مِيں "نَسَابَتِي التَّلْمِيْحِ الْمُجْتَهِدِ" لِيْنِي مِيں اِسِ پَرَاپِنِي بَا پِ كُو فِدَا كَرْنَا ہُوں۔	الْفَرُّ: مَصٌّ - بھَاگْنِي وَاللَا - (وَاحِدٌ مَجْمُوعٌ ذَكَرُو مَوْنَتِ)
الفَدِيَّةُ: مَالِ جُو چھڑانے كِي لِي دِيَا جَانِي حِ فَدَى وَفَدِيَاتِ۔	الْفَرُّ: جَمْعُ (فَارٌّ) كِي جِي سِي رَنْمَبُ: جَمْعُ (رَاكِبِ) كِي - كَمَا جَانَا ہِي (هُوَ فَرٌّ قَوْمِهِ وَفَرْتُهُمْ) وَہِ اِنِّي قَوْمِ كَا بَھْتَرِيْنِ آدِي ہِي۔
فُدَّةُ (ن) (فُدًّا): بَحْتِي سِي دِھْتَا كَرْنَا۔	الْفَرَّةُ وَالْفَرَّةُ وَالْفَرَّةُ: اِخْتِلَاطٌ - شِدْتٌ..... مِنْ الْحَرِّ وَنَحْوِهِ: كَرْمِي كِي شِدْتِ اُو رَا سِ كِي اِبْتِدَاءِ۔
أَفْذَتِ: الشَّاةُ: اِيَكِ بِيْرِي جَانَا - صَفْتِ (مُفِذٌ وَصَفِيَّةٌ) اُو رَا كَرْمِي عَادَتِ ہُو جَانِي تُو اِسِ كُو (مُفِذًا) كِي كِي۔	الْفَرَّةُ: مَسْكِرَا بَتِ۔

الْأَقْسَرُ: خُوْبِصُورَتِ طَرِيْقِي سِي بِنْتِي اُو رِ مَسْكِرَانِي وَاللَا۔

الْفَرَارُ وَالفُرُورُ وَالفُرُورُ وَالفُرُورَةُ: تِيْزِ بھَاگْنِي وَاللَا۔ الْفَرَارُ: پَارِي۔

الْفَرُورُ وَالفَرِيرُ وَالفَرَارُ: بَھِيْرُ اُو رِ كَرْمِي كَا بِيْرِي۔ الْفَرِيرُ: مَنِي۔

الْمَقْرُ: بھَاگْنِي كِي جَد۔

الْمَقْرُ: مِنْ النَّخِيْلِ: تِيْزِ كُحُوْرَا۔ وَہِ كُحُوْرَا جُو بھَاگْنِي كِي كَامِ مِيں آئِي۔

الْفَرِيْبُونُ: اِيَكِ كِي شَرِي پِيدَا اِنَشِ پُو دَا جَسِ كِي چُوں سِي زہَرِيَا دُوْدُ كِي كَلْتَا ہِي اُو رِ يہ مَادِي آكُحُوں مِيں پَرِ جَانِي تُو اِنْتِيَانِي ضَرَرِ رَسَاں ہُو سَكْتَا ہِي۔

الْفَرَا وَالفَرَاءُ: جِنْجَلِي كَلْهَاجِ اِفْرَاءِ وَفِرَاءِ اُو رِ عَرَبِ كَا قَوْلِ "كَلَّ الصَّيْدُ فِيْ جَوْفِ الْفَرَا" بَھِيْرِ مَزِي كِي مِثْلِ ہِي۔ وَہِ كُفُصٌ كِي كِتَابِي ہِي جَسِ كِي بَھْتِ سِي حَاجَتِيں ہُوں اُو رَا نِ مِيں سِي بُوْزِي حَاجَتِ پُوْرِي ہُو جَانِي اُو رَا سِ مَتَّصِدِ كِي لِي بَھِي بُولَا جَانَا ہِي كِي كُو دِي بَاتِي حَاجَتُوں كِي فَوْتِ ہُو نِي كِي پَرُو اِنْمِيں كَرْنَا۔

أَمْرٌ (فَرِيٌّ) كُھَرَا ہُو اِيْرَا۔

فَرَاتٌ (ن) (فَرَاتًا): بَدِ كَارِ ہُوْتَا۔

فَرَاتٌ (ك) (فَرَاتًا): پَانِي كَا خُو شُكُوَارِ ہُوْتَا۔ مِيٹھا ہُوْتَا۔

فَرَاتٌ (س) (فَرَاتًا): ضَعِيْفٌ اِعْتَمَلِ ہُوْتَا۔

الْفَرَاتُ: اِيَكِ بُوْرَا دِيَا ہِي جُو بَرِ فَا رَسِ مِيں كَرْتَا ہِي۔ بَھْتِ مِيٹھا پَانِي۔ كَمَا جَانَا ہِي "مَاءُ فَرَاتٍ وَمِيَاءُ فَرَاتٍ" الْفَرَاتِ: سَمْنَرِ۔

الْفَرَاتَانِ: فَرَاتِ وَدِجَلِ۔

فَرَاتُكَ فَرَاتُكَ: چُجُوْنِي چُجُوْنِي قَدَمِ سِي چَلْنَا..... الشَّيْءُ: رِيْزِي رِيْزِي ہُوْتَا..... الْعَصَلُ: فَا سَدِ كَرْنَا۔ بَا كُرْنَا۔

الْفَرَاتُكَ: كَلْتَانِي كِي لِي اِيَكِ كَانَا۔

فَرَاتِنِ فَرَاتِنِ: چُجُوْنِي چُجُوْنِي قَدَمِ سِي چَلْنَا۔

فَرَاتِنِي: اَمْتِ الْقَرُونِيَّةِ: سَمْنَرِ كَا جُو شِ۔

الْفَرْجِيُّ: بجا کا بچہ۔ زانیہ۔

فَرْجَتُ (ن) فَرْجًا وَاَنْفَرَجْتُ. الْحُبْلَى:

حاملہ عورت کا جی متلا نا۔

فَرْجَتُ (ض) فَرْجًا. كَبْدَةٌ: جگر پر مارنا۔

فَرْجَتُ (س) فَرْجًا: شکم سیر ہونا۔ الْقَوْمُ:

متفرق ہونا۔

أَفْرَجْتُ وَفَرْجْتُ. الْكُرْشُ: اوجھ کو چیر کر گوہر

نکالنا..... الْحَبُّ كَبْدَةٌ: محبت کا جگر کو کھلا سے

کھڑے کرنا۔

تَفَرَّجْتُ. الْقَوْمُ: متفرق ہونا..... تَفَرَّجْتُ

الْحُبْلَى: حاملہ عورت کا جی متلا نا۔

الْفَرْجُ: گوہر جب تک اوجھ میں رہے ج

فَرْجَتُ.

الْمُفْرَجَةُ: اوجھ کا گوہر۔

فَرْجَتُ فَرْجَةً: وجہہ چہرہ پر گوشت ہونا۔

فَرْجُ (ض) فَرْجًا وَفَرْجًا. الشَّيْءُ: بھولنا۔

كشادہ کرنا۔ اللہ الغم عنتہ: غم کو دور کرنا۔

زائل کرنا۔

أَفْرَجُ. الْغَبَارُ: غبار کا دور ہونا۔ چھٹ جانا۔

..... الْقَوْمُ عَنِ الْمَكَانِ: علیحدہ ہو جانا۔

ہٹ جانا۔ أَفْرَجْتُ الدَّجَاجَةَ: مرغی کا

بچوں والی ہونا۔ صفت (مفْرَجٌ)

تَفَرَّجُ. الْغَمُّ: غم کا دور ہونا۔

إِنْفَرَجُ: کھلنا..... الْغَمُّ: غم کا دور ہونا۔ مَا بَيْنَ

الشَّيْئَيْنِ: کشادہ ہونا..... الرَّجُلُ مِنْ

صَيْقَةِ: کسی سے نجات پانا۔ رہائی پانا۔

الْفَرْجُ: مِسْ۔ دو چیزوں کے درمیان

خلل۔ سرحد..... مِنَ السُّؤْبِ: کپڑے کا

پھین۔

مِنَ الْإِنْسَانِ: شرمگاہ اور قبل و در دونوں پر

اطلاق ہوتا ہے۔ جَ فَرْجُ الْوَادِي:

وادی کا بطن۔ فَرْجُ الطَّرِيقِ: راستہ کا

درمیانی حصہ۔

الْفَرْجُ وَالْفَرْجُ: تانت سے علیحدہ کمان۔

..... وَالْفَرْجُ وَالْفَرْجَةُ: مِنَ الرَّجَالِ: ہمید

نہ چھپانے والا مرد۔

الْفَرْجُ: کشادگی۔

الْفَرْجَةُ: دو چیزوں کے درمیان کشادگی۔

جَ فَرْجًا.

الْفَرْجَةُ وَالْفَرْجَةُ وَالْفَرْجَةُ: بختی اور غم سے

نجات۔

الْفَرْجُوجُ: بچے کی قمیص۔ قبا جس میں پیچھے

پھاڑا گیا ہو۔ جَ فَرْجًا وِج:

والْفَرْجُوجُ: مرغی کے چوزے۔ جَ فَرْجًا وِج:

واحد الْفَرْجُوجَةُ.

الْيَفْرَجَةُ: انگلیوں یا دو کھبوں کے درمیان کا

فاصلہ جَ تَفْرَاجًا..... وَالْيَفْرَاجَةُ: کمزور

بزدل جَ تَفْرَاجًا.

الْفَرْجِيُّ: ظاہر کھلا ہوا۔ قَوْمٌ فَرْجِيُّ: تانت

سے علیحدہ کمان۔

الْمُفْرَجُ: متقول جو جنگل میں ہے اور اس کا

قاتل معلوم نہ ہو۔ وہ شخص جس کے مال

اولاد اور کنبہ نہ ہو۔

الْمُفْرَجُ: تنگ کسی وہ شخص جس کی کہنی بغل سے

دور ہو۔

الْفَرْجَارُ: پرکار۔ کہا جاتا ہے خَطُّ

(فَرْجَارِي) یعنی گول دائرہ۔

الْفَرْجُونُ: کھیرا۔

إِفْرَجِمُ الْفَرْجَامَا: گوشت کا اوپر سے جل

جانا اور نہ بھننا۔

فَرْجُ (س) فَرْجًا. بِالشَّيْءِ: خوش ہونا۔

أَكْرَجْنَا: صفت (فَارِجٌ وَفَرْجٌ)

فَرْجُهُ: خوش کرنا۔

أَفْرَجَةُ: خوش کرنا أَفْرَجَةَ الدِّينِ: جو بھل

کرنا۔ عَمَلِكُنْ کرنا۔ تم کہتے ہو "أَفْرَجِحُنِي

الدُّنْيَا فِيمَ أَفْرَجِحُنِي" یعنی دنیائے مجھ کو خوش

کیا پھر عمل کن بنا دیا۔ ہمزہ سب کے لئے

ہے۔

الْفَرْجُ: خوشی۔

الْفَرْجَةُ وَالْفَرْجَةُ: خوشی خوشخبری۔ ستانے

والے کا انعام عوام کے نزدیک اس انعام کو

حُلْوَانٌ اور بَشَارَةٌ کہتے ہیں۔

الْفَرْجَانُ: خوشی والا۔ مَوْنٌ فَرَجِي

وَفَرْجَانَةٌ فَرَجِي وَفَرْجَانِي.

الْفَرْجُوجُ: خوشی والا۔ جَ فَرْجًا.

الْمُفْرَجُ: مِسْ۔ فقیر محتاج۔ گناہ نمب والا۔

الْمُفْرَجُ: بہت زیادہ خوش (مذکورہ مَوْنٌ)

الْمُفْرَجُوجُ: سرور۔ جس پر خوشی کی جائے۔

فَرْجُ (س) فَرْجًا. إِلَى الْأَرْضِ: چھٹنا۔

..... الرَّجُلُ: گھبراہٹ دور ہونا۔

فَرْجُ. الْقَوْمُ: کمزور ہونا۔ گھبرانا..... فَرْجَتُ

الطَّائِرَةُ: پرندہ کا بچوں والا ہونا۔ صفت

(مُفْرَجٌ)..... الْبَيْضَةُ: انڈے کا بچہ سے جدا

ہونا۔ فَرْجُ الشَّجَرِ: درخت کا پھوٹنا.....

الْأَمْرُ: اشتباہ کے بعد انجام کا ظاہر ہو جانا۔

..... الزُّوْعُ: خوف دُور ہونا۔

أَفْرَجُ. الزُّوْعُ: خوف دُور ہونا۔ کہا جاتا ہے

"أَفْرَجُ زُوْعًا" یعنی اپنی گھبراہٹ کو دور

کرنا اور دل کو مطمئن کرو۔ أَفْرَجَتُ الْبَيْضَةَ

وَالطَّائِرَةَ: بمعنی فرخت۔ أَفْرَجُ الْأَمْرُ:

اشتباہ کے بعد انجام کا ظاہر ہونا۔ کہا جاتا

ہے "أَفْرَجُ الْقَوْمُ بَيْضَتَهُمْ" یعنی قوم نے اپنا

ہمید ظاہر کر دیا۔

إِسْتَفْرَجُ. الْحَمَامُ: کبوتر کو بچنے نکلنے کے

لئے لینا..... الْحَمَامُ: کبوتر کی کا بچہ والی

ہونا۔

الْفَرْجُ: پرندہ کا بچہ۔ چھوٹا پودہ یا حیوان.....

مِنَ الشَّجَرِ: درخت کی جڑ میں جو پودے

نکل آئیں۔ جَ فَرْجًا وَأَفْرَاجًا وَأَفْرَجًا

وَأَفْرَجَةً وَفَرْجَانًا وَفَرْجًا. الْفَرْجُ: کمزور

ذلیل دھکا رہا آوا دی۔ فَرْجُ السَّرَاسِ:

دماغ۔

الْفَرْجَةُ: پرندہ کا مادہ بچہ۔ جَ فَرْجًا: تیز سے

کی چوڑی ناک۔

الْمَفْرَجُ: بچے نکلنے کی جگہ۔ جَ مَفْرَاجًا.

فَرْجَةٌ (ن) (و) فَرْجَةٌ (س) (و) فَرْجَةٌ (ك) (و) فَرْجَةٌ (ك)

وَأَفْرَجَةٌ: اکیلا ہونا..... بِالْأَمْرِ: تہما کا م کرنا۔

فَرْجَةٌ عَنِ الشَّيْءِ: علیحدہ ہونا۔

فَرْجَةٌ: لوگوں سے جدا ہونا۔ فقیر ہونا۔

فَرْجَةٌ بِرَأْيِهِ: رائے میں اکیلا ہونا۔

أَفْرَدَ الشَّيْءُ: جدا کرنا..... إِلَيْهِ رَسُولًا:

قا صدمہ جینا..... بالأمس: تمہا کام کرنا۔
 أَفْرَدَتِ الْأَنْثَى: ایک بچہ جنم۔ صفت
 (مفرد)
 تَفَرَّدُوا إِفْرَادًا اسْتَفْرَدُوا: بالأمس: بغیر نظیر
 کے تمہا ہونا۔ تمہا کام کرنا۔ واستفردتہ: اکیلا
 پانا۔ ساتھیوں میں سے نکال لینا۔ انفرد بہ:
 گیا تو لینا جس کا کوئی ثانی اور مثل نہ ہو۔
 الفارِد: فا۔ (الفارِد والفرد) تیل۔
 الفارِدَة: مؤنث فارِدَة: بکری جو گھر میں اکیلی
 رکھی جائے۔ نفاقَة فارِدَة: چراگاہ میں تمہا
 چرنے والی اونٹنی ج فَوَارِد۔
 الفرد: ایک طاق۔ ج فِرَاد: بے مثال ج
 أَفْرَاد و فَرَادِي: دائرہ کی ایک جانب۔
 ایک ٹکڑے کی جوتی ج اَفْرَاد: کہا جاتا ہے
 "هَذَا شَيْءٌ فَرْدٌ" یہ مفرد چیز ہے۔
 أَفْرَادُ السُّجُومِ وَفُرُودُهَا: الگ الگ طلوع
 ہونے والے ستارے۔ أَفْرَادُ النَّاسِ بڑے
 لوگ۔
 الفِرْد والفرد: ایک۔ کہا جاتا ہے "هَذَا
 شَيْءٌ فَرْدٌ وَفَرْدٌ" یہ بے مثال توار
 ہے۔ "وَشَيْءٌ فَرْدٌ وَفَرْدٌ وَفَرْدٌ" یعنی
 یہ مفرد چیز ہے۔
 الفَرْدَة: فرد کا مؤنث ج فَرْدَاتٌ وَأَفْرَادٌ
 وَفَرْدٌ۔
 الفَرْدَان: ایک۔ کہا جاتا ہے "شَيْءٌ فَرْدَانٌ"
 یعنی مفرد ہے اور مؤنث فَرْدَانِي: کہا جاتا ہے
 لَقَيْتُهُ (فَرْدَانِي) یعنی ہمارے ساتھ کوئی نہیں
 تھا۔
 الفَرْدَة: تمہا جانے والا۔ کہا جاتا ہے جَاءُوا
 (فَرْدًا وَفَرَادًا وَفَرْدَانًا وَفَرَادِي) یعنی
 اکیلا اکیلا آئے۔ واحد (فَرْدٌ وَفَرْدٌ
 وَفَرْدَانٌ)۔
 الفَرِيد: ایک۔ یکتا۔ چھوٹا موتی جو سونے اور
 بڑے موتیوں کے بیچ میں ہو۔ موتی۔ نفیس
 جو ہر ج فَوَارِد۔
 الفَرِيدَة: مؤنث فَرِيدَة: نفیس جوہر۔
 ریڑھ کی ہڈی کا وہ مہرہ جو دم کی ہڈی سے ملا

ہوا ہے ج فَرَايِد کہا جاتا ہے "أَنْثَى
 بِالْفَرَايِد" یعنی ایسے الفاظ جو فصاحت و
 بلاغت اور عربی الاصل ہونے پر دلالت
 کرتے ہیں۔
 الفَرَاد: موتیوں کا بیچنے والا۔
 المَفْرَد: مفتح۔ واحد اور اس کے مقابلہ میں
 جمع ہے۔ جنگلی تیل۔
 المَفْرَد: مِنَ الذَّهَبِ: موتی لگا کر جدا کیا
 ہوا۔
 المَفْرَد: فا۔ کہا جاتا ہے "زَاكِبٌ مَفْرَدٌ"
 سوار جس کے پاس اپنے اونٹ یا گھوڑے
 کے سوا نہ ہو۔
 فَرْدَسَةٌ فَرْدَسَةٌ: پیچھا ڈر دینا۔ زمین پر پنگ
 دینا۔
 الفِرْدَسُ: جنت۔ باغ۔ جنت۔ سرسبز وادی
 (مركز مؤنث) ج فَرَادِيَس. فِرْدَسُ
 النعیم: ایک جنت کا نام ہے۔
 الفَرْدَسَة: مص۔ گنجائش۔
 المَفْرَدَس: فا۔ کشادہ سینہ والا۔ صَدْرٌ
 (مَفْرَدَس) کشادہ سینہ۔
 مَكْرَمٌ مَفْرَدَسٌ: اُتئی گئی ہوئی انگوڑی تیل۔
 فَرْد (ض) فَرْدًا وَأَفْرَدًا. الشَّيْءُ مِنْ غَيْرِهِ:
 جدا کرنا۔ علیحدہ کرنا وَأَفْرَدَ الصَّيْدَ الصَّائِدُ:
 شکار کا شکاری کو فریب سے مارنے کا موقع
 دینا۔ افرز فَرْدًا بِشَيْءٍ: خاص کرنا اور کسی کو
 شریک نہ کرنا۔
 فَرْدٌ تَفْرَدَةٌ. عَلِيٌّ بَرَّأَيْهِ: قطع حکم لگانا۔
 فَرَزٌ. شَرِيكُهُ: الگ کرنا۔
 اِفْتَرَزَ. الْأَمْرُ: اپنے لوگوں کے مشورہ کے
 بغیر فیصلہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "اِفْتَرَزَ أَمْرَهُ
 ذُوْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ" اس نے اپنے معاملہ میں
 اپنے گھر والوں سے مشورہ کئے بغیر فیصلہ کر
 لیا۔
 تَفَارَزَ. الشَّرِيكَانِ الشَّرِيكَةَ: شرکت کو فسخ
 کرنا۔
 الفَرَز: مص۔ دو پہاڑوں کے درمیان کھدگی
 دو ٹیلوں کے درمیان پست زمین۔

الفَرْدَة: سخت زمین میں شکاف۔
 الفَرْد: ٹیلہ کاراستہ۔ ساتھی کے لئے علیحدہ کیا
 ہوا حصہ۔ ج افْرَادٌ وَفُرُودٌ۔
 الفَرْدَة: جدا کی ہوئی چیز کا ایک حصہ۔
 الفَرْدَة: باری۔ فرصت۔ ٹیلہ کاراستہ۔
 الفَرَاد. فا. كَلَامٌ فَرَادٌ: صاحب واضح
 کلام۔ لِسَانٌ فَرَادٌ: فیصلہ کن زبان۔
 الْإِفْرَائِيز. مِنَ الْحَائِطِ: کانس ج افْرَائِيز
 (دخیل)
 الفَرْدَق: روتی جوتور میں گر پڑے۔ روتی
 کے ٹکڑے۔ گوندھے ہوئے آٹے کے
 پیڑے۔ واحد (فَرْدَقَة) اور اس کی تصغیر
 فَرْدَقٌ یا فَرْدَقٌ ج فَرَادِقٌ اور قیاس کے
 لحاظ سے فَرَادِقًا لَفَرْدَقٌ: لقب ایک مشہور
 شاعر کا۔
 تَفَرَّدَ. الْكَلَامُ: گھٹا گھٹا ہونا۔
 الفَرْدَع: بنولہ۔
 الفَرْدَعَة: فَرْدَع: کا واحد۔ گھاس کا گھٹاج
 فَرَادِع.
 فَرْدَلَةٌ فَرْدَلَةٌ: قید کرنا۔
 الفِرْدَل: قید۔ جھجھکی لگانا۔ لوہا کا ٹکڑے کی
 قچی۔
 الفِرْدَل: مؤنث آدمی۔
 تَفَرَّدَ. التَّيْدِق: شطرنج میں پیادہ کا ملکہ
 جتا۔
 الفِرْدَان: شطرنج کی ملکہ ج فرادین
 (دخیل)
 فَرَسٌ (ض) فَرَسًا وَأَفْرَسًا. الْأَسَدُ
 فَرَسَةٌ: گردن توڑ دینا۔ شکار کرنا۔ فَرَسٌ
 الذَّبِيحَة: رگ گلوکات دینا۔ گردن جدا کرنا
 الشَّيْءُ: جدا جدا کرنا۔
 فَرَسٌ (ض) فَرَسَةً. بِالْعَيْنِ: ظاہر نظر سے
 باطن کو معلوم کرنا۔
 فَرَسٌ (ك) فَرَسَةً وَفَرُوسَةً وَفَرُوسِيَّةً:
 شہسوار میں ماہر ہونا۔
 فَرَسَةٌ. الشَّيْءُ: پھاڑنے کے لئے پیش کرنا۔
 أَفْرَسٌ. عَنِ بَقِيَّتِهِ نَابِلٌ: مال لینا اور کچھ باقی

چھوڑ دینا۔۔۔۔۔ الراعی: گلے کی حفاظت سے غائل ہونا۔۔۔۔۔ فَلَانٌ اَلانسدَ حِمَارًا: اپنی نجات کے لئے گدھے کو چھڑانے کے لئے شیر کے سامنے کر دینا۔

تَفَرُّسٌ: فہمہ: نظر ہٹا کر دیکھنا۔ فہمہ الخیر: کسی کے اندر علامت سے خیر پہچاننا۔۔۔۔۔ الرَجُلُ: بحکمت شہسوار ظاہر کرنا کہا جاتا ہے فَلَانٌ لَیسَ بِفَارِسٍ وَلَکِنَّهُ یَتَفَرَّسٌ: فالارا شہسوار نہیں ہے لیکن وہ شہسوار بنتا ہے۔

الْفَرَسُ وَفَارِسٌ: مملکت فارس کے باشندے ان کے نملک کو (فارس) اور ان کی زبان کو (الفارسیہ) کہتے ہیں۔

الْفَارِسِيُّ: فارس کی طرف نسبت۔ فَرَسٌ کا واحد۔

الفرس: ایک قسم کی گھاس۔

الفرس: گھوڑا۔ گھوڑی۔ مذکر کو حصان اور مؤنث کو حسیر: کہتے ہیں اور بسا اوقات مؤنث کے لئے (فرسہ) بھی استعمال کرتے ہیں اور فرس کی جمع غیر لفظ سے خیل آتی ہے اور اس سے افراس ہے۔ تین گھوڑیوں کے لئے ثلاثۃ افراس اور تین گھوڑیوں کے لئے ثلاث افراس کہیں گے اور جمع کثرت فَرُوسٌ آتی ہے اور عرب کا قول ہے "ہمنا کفرسی دھان" مثل ہے ان دو شخصوں کے لئے جو کسی ایک مقصد کی طرف مسابقت کریں اور کوشش اور فصل میں برابر ہوں۔ فَرُوسٌ البَحْرُ: ایک دریائی جانور ہے جو بڑے جسم اور بڑے سر کا ہوتا ہے اور اس کی ناکھیں اور ذم چھوٹی ہوتی ہے اور اس کی ہر ناکھ میں چار کھر ہوتے ہیں اور اس کو فَرُوسٌ النہرِ اور خاموسُ البَحْرِ بھی کہتے ہیں۔

الفروسیہ: تصغیر فرس: کی مؤنث کے لئے۔ الفروسی: تصغیر فرس: کی مذکر کے لئے۔ الفروسیہ: فرس: کا اسم مرثہ (۔۔۔۔۔) والفروسیہ) پھوڑا جو گردن میں ہوتا ہے۔

الفارسی: فارسی گھڑسوار۔ گھوڑے والا ج

فَرَسَانٌ وَفَوَارِسٌ اور کہا جاتا ہے "هُوَ فَارِسٌ بِالْأَمْرِ" وہ معاملہ کا جاننے والا ہے۔ الْأَفْرَسُ: شہسواری کا ماہر۔ زیادہ سمجھدار۔ أَبُو فَرَسٍ وَالْفَرَسُ: شیر۔ الفَرَسُ: ذکی۔

الْفَرَسُ: مقول کہا جاتا ہے تَوَرَّ فَرَسٌ وَبَسْفَرَةٌ فَرَسٌ ج فَرَسِيٌّ: حلقہ جو ریشی کے سرے پر باندھا جاتا ہے۔

الْفَرَسِيَّةُ: فرس کا مؤنث۔ جس کو شیر وغیرہ پھاڑ دیں۔

الْفَرَانِسُ وَالْفِرْنَانِسُ: شیر۔ موٹی گردن والا۔

الفرناس: بہت زیادہ بہادر۔ دیہاتیوں کا چودھری۔ ج فَرَانِسَةٌ۔

الْمَفْرُوسُ: گردن کے پھوڑنے والا۔ الفَرُوسُ: شیر۔

فَرَسٌ فَرَسِيٌّ وَالْفَرَسِيَّةُ: الشئی: کشادہ ہونا۔

(۔۔۔۔۔) وَتَفَرَسْنِيحٌ وَالْفَرَسِيحُ: التَرْدُ او الْمَرَضُ: سردی یا بیماری کی تیزی کا کم ہونا۔ تَفَرَسْنِيحٌ وَالْفَرَسِيحُ: عُمُ: کاف کا دُور ہونا۔ زائل ہونا۔

الْفَرَسِيحُ: راحت۔ سکون۔ مدت طویل۔ ہمیشہ رہنے والی چیز۔ شِكَافٌ: فَرَسِيحٌ: الطَّرِيقُ: تین میل ہاشمی اور بقول بعض بارہ ہزار رز اور یہ تقریباً آٹھ کلومیٹر کے برابر ہوتا ہے۔ ج فَرَسِيحٌ (کلمہ فارسی ہے) سَرَاوِيلُ (مُطَوَّرَةٌ) کشادہ شلوار۔

الْفَرَسِيحُ: اونٹ کے کھر کا کنارہ (مؤنث) ج فَرَسِيحٌ۔

رَجُلٌ (مَفْرَسِيٌّ) الزَّجْوُ: پر گوشت چہرہ والا مرد۔

فَرَسٌ (نض) فَرَسًا وَفَرَسًا: الشئی: بچھانا۔۔۔۔۔ فَلَانًا أَمْرًا: کشادہ کرنا۔۔۔۔۔ الزَّجُلُ: جھوٹ بولنا۔۔۔۔۔ الْأَمْرُ: پھیلانا۔۔۔۔۔ عَنَهُ: ارادہ کرنا۔ تیار ہونا۔

فَرَسًا: النَّبَاتُ: نباتات کا زمین پر پھیلانا۔

فَرَسٌ: فَلَانًا بِسَاطًا: کسی کے لئے بچھونا

بچھانا۔۔۔۔۔ فَرَسُ الدَّارِ: فرش لگانا۔ اینٹ اور پتھر بچھانا۔۔۔۔۔ السَّرَزُجُ: پھیلانا اور پتوں کا بڑھنا۔۔۔۔۔ الطَّائِرُ: پرندہ کا پھڑ پھڑانا۔

أَفْرَسُهُ: بساط: کسی کے لئے بچھونا بچھانا۔

بچھانا۔۔۔۔۔ السَّرَزُجُ: پھیلانا اور پتوں کا بڑھنا۔۔۔۔۔ الطَّائِرُ: پرندہ کا پھڑ پھڑانا۔

أَفْرَسُهُ: بساط: کسی کے لئے بچھونا بچھانا۔

أَفْرَسُ السَّيْفِ: تلوار کی دھار کا پتلا کرنا۔ تیز کرنا۔ السَّخْرُ: درخت کا لمبی ٹنڈی والا ہونا۔

عَنَهُ: علیحدہ ہونا، دُور ہونا۔۔۔۔۔ الزَّجُلُ: غیبت کرنا اور بُری بات کہنا۔۔۔۔۔ السَّكَّانُ: زیادہ پڑنے والا ہونا۔۔۔۔۔ الشَّاةُ لَذْبِجٌ: زمین پر ذبح کرنے کے لئے لگانا۔۔۔۔۔ الزَّجُلُ: بچھونے والا ہونا۔

تَفَرَّسٌ: الطَّائِرُ: پرندہ کا پھڑ پھڑانا۔

أَفْرَسٌ: ذِرَاعِيَّةٌ: بازو پھیلانا۔۔۔۔۔ الشئی: روندنا۔۔۔۔۔ السَّطْرِيْقُ: چلنا۔۔۔۔۔ الرَّجُلُ: پھچھانا۔۔۔۔۔ اَفْرُ فَلَانٌ: پھچھانا کرنا۔۔۔۔۔ عَوْرَضَةٌ: بے عزتی کرنا۔۔۔۔۔ الشَّجَّةُ الدِّمَاغُ: بغیر ٹوٹنے کے پھٹنا۔۔۔۔۔ الْمَالُ: غضب کرنا۔۔۔۔۔ الشئی: پھیلانا۔

الْفَرَسُ: مہص۔ بچھونا۔ کشادہ زمین چھوٹے چھوٹے درخت چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں۔

چھوٹے چھوٹے اونٹ (اور اس معنی کے لحاظ سے جمع نہیں) جھوٹ۔ کھتی۔ جبکہ اس کے تین پتے نکل آئیں۔ وہ جگہ جہاں بکثرت نباتات ہوں۔ گائے بکری جو ذبح کے قابل نہ ہوں۔

الفَرَسَةُ: فَرَسٌ: کا اسم مرثہ۔۔۔۔۔ عِنْدَ الْعَامَةِ: بچھونا۔

الْفَرَسَةُ: بچھانے کی ہیئت۔ کہا جاتا ہے هُوَ حَسَنُ الْفَرَسَةِ: یعنی وہ اچھی حالت میں بچھا ہوا ہے۔

الْفَرَسُ: زمین پر خشک شدہ کچھڑ۔۔۔۔۔ مِّنَ السَّبِيذِ: شراب کے بلبل زبانی کے نیچے دو سرخ رنگیں دو لوہے جس سے لگام کو باندھتے ہیں۔ الفَرَسُ مِنَ الرِّجَالِ: بہت ہلکا پھلکا مرد۔

الْفَرَسُ: بچھونا۔ گھونسلہ۔ مٹ کی جڑ میں

بچھونا۔ گھونسلہ۔ مٹ کی جڑ میں

بچھونا۔ گھونسلہ۔ مٹ کی جڑ میں

بچھونا۔ گھونسلہ۔ مٹ کی جڑ میں

بچھونا۔ گھونسلہ۔ مٹ کی جڑ میں

بچھونا۔ گھونسلہ۔ مٹ کی جڑ میں

زبان کی جگہ اَفْرُشَةٌ و فَرُوشٌ.

الفَرَّاشُ: بہت بچانے والا۔

الفَرَّاشَةُ: پتلی بڑی یا پتلا لوہا۔ تھوڑا پانی.....

من القفل: تالے کا جھڑ۔ کندھوں کا اٹھا ہوا

حصہ اور (فَرَّاشُ الدِمَاعِ) کا واحد ہے اور

فَرَّاشُ الدِمَاعِ: ان پتلی پتلی بڑیوں کو کہتے

ہیں کہ جو کھوپڑی تک پہنچتی ہیں۔ الفَرَّاشَةُ:

پر دانہ اوجھی طبیعت کا مرد۔ کہا جاتا ہے "منا

هُوَ الْاَفْرَاشَةُ" اور یہ حقارت اور حسرت کے

لئے مثل ہے ج فرَّاش.

الْفَرَّاشِيُّ: مِنَ النَّبَاتِ: زمین پر پھیلی ہوئی

تیل۔ گھوڑی جس نے حال ہی میں بچہ دیا

ہو۔ ج فرَّاش.

المِفْرَاشُ: بچھوتا۔

المِفْرَاشَةُ: کجاوہ پر بچھانے کا چھوٹا سا

بچھوتا۔ ج مفْرَاش.

المُفْرَشُ: منع کہا جاتا ہے "جَمَلَ مُفْرَشٌ"

بغیر کوہان کے اونٹ۔

فَرَضَحَ فَرَضْحَةً و فَرَضَحِي: ناکھیں کشادہ

کرنا۔ ڈھیلے طریقہ سے رانوں کو زمین سے

ملا کر بیٹھنا۔ فریب فریب کو دنا۔

السِّفْرَاشُ: بے بارش کا بادل۔ بے ڈول

بلند عورت۔ چوڑا کمر۔ کشادہ زمین

(الفَرَّاشِيُّ) عضو تاسل۔

فَرَضَ (ن) فَرَضًا، الشَّيْءُ: کاٹنا۔

الجِلْدُ: چیرنا۔ پھاڑنا..... الفَرَضَةُ: فرصت

پانا۔

فَرَضَ (ض) فَرَضًا، الرِّجْلُ: رگ گھوپر

مارنا۔ شانہ کے گوشت پر مارنا۔

فَرَضَ فَرَضًا و فَرَضًا: شانہ کے گوشت میں

ورد ہونا۔

فَرَضَ النَّعْلُ: جوتے پر لوہے کی نوک سے

مقش کرنا۔

فَارَضَهُ مَفْرَضَةً، فِي الشَّيْءِ: نوبت بنو بت

کرنا۔

أَفْرَضَهُ الْفَرَضَةَ: فرصت ملنا۔ أَفْرَضَ

و تَفَرَّضَ الْفَرَضَةَ: مہلت پانا۔

تَفَرَّضَ، الْقَوْمُ الْبَنُو: قوم کا کتوں میں پر باری

باری آنا۔

أَفْرَضَ، الْفَرَضَةُ: موقع پانا۔ فرصت کو

غنیمت جانتا کہا جاتا ہے "فَلَانٌ لَا يُفْتَرَضُ

إِحْسَانُهُ و بَرُّهُ" یعنی فوت ہونے کا خوف

نہیں کیا جاتا ہے۔

الْفَرَضَةُ: باری اور یہ اسم ہے۔ تَفَرَّضَ ص

الْقَوْمُ الْبَنُو: کا کہا جاتا ہے جِئَانُ ث

فَرَضْتُكَ مِنَ السَّقِيِّ: یعنی تمہاری باری

آئی۔ وقت مناسب اِنْتَهَزَ الْفَرَضَةَ: فرصت

کو غنیمت جانا۔ ج فَرَضَ.

الْفَرَضَةُ و الْفَرَضَةُ و الْفَرَضَةُ: اُون یا رُوئی

کا ٹکڑا۔

السِّفْرَانِيُّ: پانی کا شریک کہتے ہو "هُوَ

فَرِيضِي" گلے کی رگیں۔ واحد (فَرِيضَةٌ)

ہے۔

الْفَرِيضَةُ: باری۔ پہلو اور موٹھے یا پستان

اور موٹھے کے درمیان کا گوشت جو خوف

کے وقت اُجھلنے لگتا ہے کہا جاتا ہے اِرْتَعَدْتُ

فَرِيضَةً یعنی بت گھبرایا "هُوَ ضَخْمُ

الْفَرِيضَةِ" یعنی وہ جری اور بہادر ہے۔ ج

فَرِيضٌ و فَرَائِضُ.

الجَفْرِصُ: لوہا یا چاندی کا ٹٹے کی جھینج

مَفْرِصُ.

الجَفْرِاصُ: لوہا یا چاندی کا ٹٹے کی جھینج

مَفْرِاصُ.

السِّفْرَضَادُ: سرخ رنگ۔ توت یا توت کا

درخت۔

و السِّفْرِصِدُ و السِّفْرِصِدُ: انگوٹھا۔ فَرَضَ

(ض) فَرَضًا، الْحَشْبَةُ و فِيهَا: لکڑی کا ٹٹا

چھیدنا..... الْأَمْرُ: فرض کرنا۔ معین کرنا۔

..... لَهْ كَذَا فِي الدِّيْوَانِ: عطیہ دینا۔ تنخواہ

مقرر کرنا..... لِفُلَانٍ كَذَا: فرض مقرر کرنا

..... لَهْ: وقت معین کرنا..... اللَّئِي الْأَحْكَامُ

عَلَى عِبَادِهِ: واجب ٹھہرانا۔

فَرَضْتُ (ض) و فَرَضْتُ (ك) فَرُوضًا

و فَرَضَةً، الْبَقْرَةَ: گائے کا عمر رسیدہ ہونا۔

صفت (فَارَضٌ)

فَرُوضٌ (ك) فَرَاضَةٌ: علم فرائض کا جاننے

والا ہونا۔

فَرَضٌ، الْحَشْبَةُ: لکڑی میں سوراخ کرنا۔

..... الْأَمْرُ: واجب کرنا۔

أَفْرَضُ، فُلَانًا شَيْئًا: دینا..... لِفُلَانٍ كَذَا:

فرض قرار دینا۔ أَفْرَضْتُ الْمَاثِيَةَ: نصاب

کو پہنچانا۔ زکوٰۃ کے قابل ہونا۔

أَفْرَضُ، اللَّئِي الْأَحْكَامُ عَلَى عِبَادِهِ:

واجب ٹھہرانا..... السَّقِيمُ: قوم کا ختم ہو جانا

..... الْجُنْدُ: فوج کا تنخواہ لینا۔

الْفَرَضُ: خمس..... مِنَ الْقَوَاسِ: چلکان کی

جگہ۔ ج فَرَاضُ، الْفَرَضُ: اللہ کا بندوں پر

مقرر کیا ہوا قانون۔ اپنے پر لازم کی ہوئی

چیز عَلَيَّهِ: تنخواہ۔ تنخواہ دار فوج ج فَرُوضُ

و فَرَاضُ.

الْفَرَضُ: کاٹ۔

الْأَفْرِاضُ: منطقیوں کے نزدیک۔ تقضایا کے

برعکس طرق میں سے ایک طریق۔

الْفَرَضَةُ: مِنَ النَّهْرِ: دریا کا دانہ۔ لکڑی

جس میں دروازہ کی چول ہو..... مِنَ الْبَحْرِ:

بندر گاہ..... مِنَ الْقَوَاسِ: کمان کا سرا جو

تانت لگانے کے لئے کاٹا جائے..... مِنَ

الدَّوَاةِ: دوا میں سیاہی کی جگہ۔ فَرَضَتُهُ

التَّجْبِيلُ: پہاڑ کے وسط کی پست جگہ ج فَرُوضُ

و فَرَاضُ.

الْفَرَاضُ: کپڑا۔ دریا کا دانہ۔

الْفَرَاضُ: فَا۔ موٹا۔ پرائاج فَرُوضُ: موٹ

فَارِضَةٌ ج فَارِضَاتُ و فَوَارِضُ.

..... وَالْفَرَضِيُّ و الْفَرِيضُ و الْفَرَاضُ: علم

فرائض کا جاننے والا۔

الْفَرِيضَةُ: فرض۔ زکوٰۃ۔ مقرر کردہ حصہ۔

ج فَرَانِضُ عِلْمُ الْفَرَانِضِ: وہ علم جس میں

دارین کے حصص بیان کئے جائیں۔

أَصْحَابُ الْفَرَانِضِ: وہ ورثہ جن کے حصے

مقرر ہیں۔

الجَفْرِاصُ و الجَفْرِصُ: کاٹنے کے اوزار۔

السَّفَرُوضُ: مص اللہ کا حکم جو بندوں پر واجب ہو۔ کا نا ہوا۔ محدود۔

الفِرْضِمُ: بوڑھی بکری۔

فِرطُ (ن) فِرطُوطًا: آگے بڑھنا۔ مقدم ہونا۔

فِرطًا فِي الْأَمْرِ: کوتاہی کرنا۔ فرط مُنْه السُّقُولُ: بغیر کچھے بوٹھے کہنا۔ مِنْهُ شَيْءٌ: جاتا رہنا۔ غَلِيْبُهُ فِي الْقَوْلِ: پیش دہتی کرنا

اور حد سے گزرتا۔ فِرطَ عَلَيَّ فُلَانٌ: جلدی کرنا اور تکلیف دینا۔ فِرطَ: غالب ہونا۔

فِرطَ إِلَيْهِ رَسُولًا: قاصد بھیجنا اور جلدی کرنا۔ وَلَدًا: چھوٹا بچہ مرنا۔

فِرطُ (ن) فِرطًا و فِرطًا: فِرطَةُ الْقَوْمِ: گھاس پانی کی طرف قوم سے پہلے جانا۔ صفت (فَارِطٌ) جمع فَارِطُونَ و فِرطًا:

فِرطُ الشَّيْءِ و فِي الشَّيْءِ: ضائع کرنا۔ متفرق کرنا۔ فِي الشَّيْءِ: کوتاہی کرنا۔

عاجزی کرنا۔ فِرطُهُ: چھوڑ دینا اور آگے بڑھ جانا۔ مدح یا ججو کرنا اور حد سے گزرتا۔

غَنَهُ: مہلت دینا۔ إِلَيْهِ رَسُولًا: قاصد بھیجنا۔ اللَّهُ عَنْهُ عَارِضٌ: دور کرنا۔ ہٹانا۔ و نَحَ: کرنا۔

أَفِرطَ: جانب زیادتی اور حد سے بڑھ جانا۔ جلدی کرنا۔ رَسُولًا: قاصد بھیجنا۔

الامْرُ: بھولنا اور چھوڑنا۔ الانَاءُ: برتن کو لباب بھرنا۔ بِيَدِهِ إِلَى السَّيْفِ لِيَسْتَلَّهُ: تلوار کھینچنے میں جلدی کرنا۔ غَلِيْبِي الرَّجُلِ: طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا۔

فُلَانٌ و لَدَا: نابالغ بچے کا وفات پانا۔ الشَّيْءِ: بھولنا۔ چھوڑنا۔ کہا جاتا ہے "مَا أَفِرطَ مِنْهُمْ أَحَدًا" یعنی کسی کو نہیں چھوڑا۔

فَارِطُهُ فِرَاطًا و مُفَارِطَةٌ: سبقت لے جانا۔ پالینا۔

تَفَرَطَ الشَّيْءِ: وقت گزر جانا۔ القُرْمُ السَّخِيلُ: گھوڑے کا سابق ہونا۔ آگے بڑھ جانا۔

تَفَارَطَ: آگے بڑھنا۔ الْقَوْمِ: آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ الشَّيْءِ: وقت کا جاتا

رہنا۔ کہا جاتا ہے "تَفَارَطَتِ الصَّلَاةُ عَنْ وَقِيْهَاس" یعنی نماز اپنے وقت سے مؤخر ہو گئی

تَفَارَطَتُهُ الْهَمُومُ: غموں کا لاحق ہونا۔ انْفِرطَ: کھلنا۔

اِنْفِرطَ. و لَدَا: چھوٹے بچے کا مرنا۔ اِلَيْهِ فِي الْأَمْرِ: آگے بڑھنا۔ سبقت کرنا۔

کہا جاتا ہے "فُلَانٌ لَا يُفِرطُ إِحْسَانُهُ" یعنی فلاں کے احسان کے فوت ہونے کا خوف نہیں کیا جاتا۔

السَّفَرُطُ: مص۔ افراط کا اسم ہے۔ ٹیلہ کا سرا۔ پہاڑی کی چوٹی۔ راستہ کا نشان۔ ج

أَفِرطَ و أَفِرطًا: فِرطُ: وقت اور کہا جاتا ہے اَتَيْتُهُ فِرطًا: میں اس کے پاس چند دن کے بعد آیا اور یہ پندرہ دن سے زائد اور تین دن سے کم نہیں ہوتا۔ اَتَيْتُكَ فِرطَ يَوْمٍ

أَوْ يَوْمَيْنِ: یعنی ایک یا دو دن کے بعد آؤں گا "وَلَا أَلْقَاءَ إِلَّا فِي الْفِرطِ" یعنی چند ایام میں ایک مرتبہ ملوں گا۔

الفِرطُ: دامن کوہ۔ أَفِرطُ: الصباح: صبح کی پہلی شعاعیں۔

السَّفَرُطُ: پانی کی طرف قوم سے آگے بڑھنے والا۔ اس میں واحد جمع برابر ہیں کہا جاتا ہے رَجُلٌ فِرطٌ قَوْمٌ فِرطٌ اور اسی سے ہے "أَنَا فِرطُكُمْ عَلَى الْخَوْضِ" الفِرطُ: پہلا بچپا

ہوا اجر۔ جلد بازی۔ وہ کام جس میں کوتاہی کی جائے۔ نابالغ بچہ کہا جاتا ہے "سَبَقَهُ فِرطٌ كَثِيْرٌ" نابالغ بچے مر گئے اور مردہ بچے کے جنازہ کی دعائیں کہتے ہیں ((اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فِرطًا)) یعنی اے اللہ اس کو ہمارے لئے اجر بنا دے جو ہم سے پہلے پہنچ جائے۔

الفِرطُ: چھوڑا ہوا کام۔ حد سے گزرا ہوا حد سے تجاوز ظلم و زیادتی۔ تیز گھوڑا جو سارے گھوڑوں سے بڑھ جائے۔

السَّفَرُطَةُ و الفِرطَةُ: لگانا اور آگے بڑھنا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ ذُو فِرطَةٍ فِي الْبِلَادِ" یعنی بہت سفروں والا ہے۔

السَّفَرُطَةُ و الْمَاءُ الْفِرَاطُ: پانی جو چند مہینوں کے درمیان مشترک ہو اور جو پہلے پہنچ جائے اسی کا ہو جائے۔ بَسْرُ فِرَاطَةَ: بھی کہا جاتا ہے یعنی مشترک کنواں تگلم فِرَاطًا: بے کچھے بوٹھے بولا۔

مَفَارِطُ: البلاد: اطراف بلاد۔ فِرطَحَ فِرطُوحَةً الشَّيْءِ: چوڑا کرنا۔ رَاسُ فِرطَاحٍ و مُفِرطِحٌ: چوڑا سر۔ فِرطَسَ: الخنزير: ناک لمبی کرنا۔

فِرطُوسَةٌ و فِرطُوسَةٌ: سواری ناک۔ الفِرطُوسَةُ: ناک کا بائیں۔ ج فِرَاطِيسُ: الفِرطُاسُ: چوڑا۔

فِرْعَ (ف) فِرْعًا و فِرْعًا: التَّجِيلُ: پہاڑ پر چڑھنا۔ الوادِي: وادی میں اترنا۔ الارض: زمین میں چکر لگانا۔ الْقَوْمِ: قوم سے شرافت اور جمال میں فائق ہونا۔

الْفِرْسُ بِالسَّلْحَامِ: گھوڑے کو لگام کھینچ کر ٹھہرانا۔ رَاسُهُ بِالْفِعْصَا: سر پر لانگی مارنا۔ بَيْنَ الْقَوْمِ: روک بن جانا یا اصلاح کرنا کہا جاتا ہے "هَذَا أَوْلُ صَيْدِ فِرْعَةَ" پہلا شکار ہے جس کا خون گرایا گیا ہے۔

فِرْعُ (س) فِرْعًا: کثرت سے بالوں والا ہونا۔ صفت (الْفِرْعُ) مَوْئِثُ فِرْعَاءُ ج فِرْعُ: فِرْعُ: فِي التَّجِيلِ: پہاڑ پر چڑھنا۔

مِنَ التَّجِيلِ: پہاڑ سے اترنا۔ بَيْنَهُمْ: تفریق کرنا۔ التَّمَائِلُ مِنْ هَذَا الْأَصْلِ: فروغ کا استنباط کرنا۔ فِي الْأَرْضِ: زمین میں چکر لگانا۔

أَفِرْعُ: مِنَ التَّجِيلِ: پہاڑ سے اترنا۔ بِالْقَوْمِ: قوم کے پاس نازل ہونا۔ الشَّيْءِ: طویل و بلند ہونا۔ الامْرُ: شروع کرنا۔ السَّلْحَامُ الْفِرْسُ: لگام کا گھوڑے کو بولہ بان کرنا۔ أَفِرْعَتِ الصَّبْعُ الْغَنَمِ أَوْ فِي الْغَنَمِ: ججو کا بکریوں میں تباہی ڈالنا اور خون آلود کرنا۔ أَفِرْعَتِ الْإِبِلُ: اونٹنی کا پہلا بچہ جنانا۔ الْقَوْمِ مِنْ سَفَرِهِمْ: وقت سے پہلے سفر سے واپس آنا۔

السَّفَرُطَةُ و الْمَاءُ الْفِرَاطُ: پانی جو چند مہینوں کے درمیان مشترک ہو اور جو پہلے پہنچ جائے اسی کا ہو جائے۔ بَسْرُ فِرَاطَةَ: بھی کہا جاتا ہے یعنی مشترک کنواں تگلم فِرَاطًا: بے کچھے بوٹھے بولا۔

مَفَارِطُ: البلاد: اطراف بلاد۔ فِرطَحَ فِرطُوحَةً الشَّيْءِ: چوڑا کرنا۔ رَاسُ فِرطَاحٍ و مُفِرطِحٌ: چوڑا سر۔ فِرطَسَ: الخنزير: ناک لمبی کرنا۔

فِرطُوسَةٌ و فِرطُوسَةٌ: سواری ناک۔ الفِرطُوسَةُ: ناک کا بائیں۔ ج فِرَاطِيسُ: الفِرطُاسُ: چوڑا۔

فِرْعَ (ف) فِرْعًا و فِرْعًا: التَّجِيلُ: پہاڑ پر چڑھنا۔ الوادِي: وادی میں اترنا۔ الارض: زمین میں چکر لگانا۔ الْقَوْمِ: قوم سے شرافت اور جمال میں فائق ہونا۔

الْفِرْسُ بِالسَّلْحَامِ: گھوڑے کو لگام کھینچ کر ٹھہرانا۔ رَاسُهُ بِالْفِعْصَا: سر پر لانگی مارنا۔ بَيْنَ الْقَوْمِ: روک بن جانا یا اصلاح کرنا کہا جاتا ہے "هَذَا أَوْلُ صَيْدِ فِرْعَةَ" پہلا

شکار ہے جس کا خون گرایا گیا ہے۔ فِرْعُ (س) فِرْعًا: کثرت سے بالوں والا ہونا۔ صفت (الْفِرْعُ) مَوْئِثُ فِرْعَاءُ ج فِرْعُ: فِرْعُ: فِي التَّجِيلِ: پہاڑ پر چڑھنا۔

مِنَ التَّجِيلِ: پہاڑ سے اترنا۔ بَيْنَهُمْ: تفریق کرنا۔ التَّمَائِلُ مِنْ هَذَا الْأَصْلِ: فروغ کا استنباط کرنا۔ فِي الْأَرْضِ: زمین میں چکر لگانا۔

أَفِرْعُ: مِنَ التَّجِيلِ: پہاڑ سے اترنا۔ بِالْقَوْمِ: قوم کے پاس نازل ہونا۔ الشَّيْءِ: طویل و بلند ہونا۔ الامْرُ: شروع کرنا۔ السَّلْحَامُ الْفِرْسُ: لگام کا گھوڑے کو بولہ بان کرنا۔ أَفِرْعَتِ الصَّبْعُ الْغَنَمِ أَوْ فِي الْغَنَمِ: ججو کا بکریوں میں تباہی ڈالنا اور خون آلود کرنا۔ أَفِرْعَتِ الْإِبِلُ: اونٹنی کا پہلا بچہ جنانا۔ الْقَوْمِ مِنْ سَفَرِهِمْ: وقت سے پہلے سفر سے واپس آنا۔

السَّفَرُطَةُ و الفِرطَةُ: لگانا اور آگے بڑھنا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ ذُو فِرطَةٍ فِي الْبِلَادِ" یعنی بہت سفروں والا ہے۔

السَّفَرُطَةُ و الْمَاءُ الْفِرَاطُ: پانی جو چند مہینوں کے درمیان مشترک ہو اور جو پہلے پہنچ جائے اسی کا ہو جائے۔ بَسْرُ فِرَاطَةَ: بھی کہا جاتا ہے یعنی مشترک کنواں تگلم فِرَاطًا: بے کچھے بوٹھے بولا۔

مَفَارِطُ: البلاد: اطراف بلاد۔ فِرطَحَ فِرطُوحَةً الشَّيْءِ: چوڑا کرنا۔ رَاسُ فِرطَاحٍ و مُفِرطِحٌ: چوڑا سر۔ فِرطَسَ: الخنزير: ناک لمبی کرنا۔

فِرطُوسَةٌ و فِرطُوسَةٌ: سواری ناک۔ الفِرطُوسَةُ: ناک کا بائیں۔ ج فِرَاطِيسُ: الفِرطُاسُ: چوڑا۔

فِرْعَ (ف) فِرْعًا و فِرْعًا: التَّجِيلُ: پہاڑ پر چڑھنا۔ الوادِي: وادی میں اترنا۔ الارض: زمین میں چکر لگانا۔ الْقَوْمِ: قوم سے شرافت اور جمال میں فائق ہونا۔

الْفِرْسُ بِالسَّلْحَامِ: گھوڑے کو لگام کھینچ کر ٹھہرانا۔ رَاسُهُ بِالْفِعْصَا: سر پر لانگی مارنا۔ بَيْنَ الْقَوْمِ: روک بن جانا یا اصلاح کرنا کہا جاتا ہے "هَذَا أَوْلُ صَيْدِ فِرْعَةَ" پہلا

شکار ہے جس کا خون گرایا گیا ہے۔ فِرْعُ (س) فِرْعًا: کثرت سے بالوں والا ہونا۔ صفت (الْفِرْعُ) مَوْئِثُ فِرْعَاءُ ج فِرْعُ: فِرْعُ: فِي التَّجِيلِ: پہاڑ پر چڑھنا۔

مِنَ التَّجِيلِ: پہاڑ سے اترنا۔ بَيْنَهُمْ: تفریق کرنا۔ التَّمَائِلُ مِنْ هَذَا الْأَصْلِ: فروغ کا استنباط کرنا۔ فِي الْأَرْضِ: زمین میں چکر لگانا۔

أَفِرْعُ: مِنَ التَّجِيلِ: پہاڑ سے اترنا۔ بِالْقَوْمِ: قوم کے پاس نازل ہونا۔ الشَّيْءِ: طویل و بلند ہونا۔ الامْرُ: شروع کرنا۔ السَّلْحَامُ الْفِرْسُ: لگام کا گھوڑے کو بولہ بان کرنا۔ أَفِرْعَتِ الصَّبْعُ الْغَنَمِ أَوْ فِي الْغَنَمِ: ججو کا بکریوں میں تباہی ڈالنا اور خون آلود کرنا۔ أَفِرْعَتِ الْإِبِلُ: اونٹنی کا پہلا بچہ جنانا۔ الْقَوْمِ مِنْ سَفَرِهِمْ: وقت سے پہلے سفر سے واپس آنا۔

السَّفَرُطَةُ و الفِرطَةُ: لگانا اور آگے بڑھنا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ ذُو فِرطَةٍ فِي الْبِلَادِ" یعنی بہت سفروں والا ہے۔

السَّفَرُطَةُ و الْمَاءُ الْفِرَاطُ: پانی جو چند مہینوں کے درمیان مشترک ہو اور جو پہلے پہنچ جائے اسی کا ہو جائے۔ بَسْرُ فِرَاطَةَ: بھی کہا جاتا ہے یعنی مشترک کنواں تگلم فِرَاطًا: بے کچھے بوٹھے بولا۔

مَفَارِطُ: البلاد: اطراف بلاد۔ فِرطَحَ فِرطُوحَةً الشَّيْءِ: چوڑا کرنا۔ رَاسُ فِرطَاحٍ و مُفِرطِحٌ: چوڑا سر۔ فِرطَسَ: الخنزير: ناک لمبی کرنا۔

.....الأرض : زمین میں چکر لگانا
 الفرعۃ : پہلا بچہ ذبح کرنا أهله : کفیل ہونا۔
 حاجتہ اوسفرۃ : شروع کرنا (أفرغ) بفلائن : پکڑا جانا اور قتل کیا جانا۔
 فآرغۃ : کفایت کرنا اور انگیز کرنا۔
 إفرغ : البکرۃ : نکارت زائل کرنا۔
 تفرغ : القوم : گالی دینا۔ فائق ہونا۔
 الشی : بلند ہونا۔ تفرغت الاغصان : ٹہنیوں کا بہت ہونا المسائل : اصول سے متفرغ ہونا الشی علی الشی : مترتب ہونا یعنی ہونا۔
 استفرغ الشی : شروع کرنا الرجُل : پہلے بچہ کو ذبح کرنا۔
 الفرع : مہم من محلی شی : اوپر کا حصہ جو اصل سے نکلا ہو جیسے فرع الشجرۃ : منفعت بخش مال۔ الفرع فی المسائل العلییۃ : مسائل مطبوعہ جو کسی اصل سے نکلے ہوں۔ فرع المرآۃ : عورت کے بال فروغ القوم : سردار رئیس۔ فرع الاذن : کان کا اوپر کا حصہ۔ فرع فرغ : الفرع : جو کیں واحد (فرعۃ) اور کہا جاتا ہے "ضربہ علی فرعۃ النبیہ" چوڑے اس حصے پر جو بیٹھے میں زمین پر لگتا ہے۔
 الفرع : گھائی کی طرف پانی بہنے کی جگہ فراع۔
 الفرع : اونٹ یا بکری کا پہلا بچہ۔ جو میں واحد (فرعۃ) تقسیم۔ کہا جاتا ہے تراضو بالفرع : یعنی تقسیم پر راضی ہو گئے۔
 الفرعۃ : راستہ کی بلندی۔ پہاڑ کی چوٹی ج فراع۔
 القارح : فا۔ خوبصورت۔ بلند۔ پست۔
 القارحۃ : مؤنث قارح۔ قارحۃ البجل : پہاڑ کا بلند حصہ۔ ج قوارح (قارحۃ الطریق و فرعاۃ) راستہ کی بلندی۔
 المسفرع : لوگوں کے درمیان صلح کرانے والا۔ ج مقارع۔

المفرغ : ہر چیز کا طویل۔ کہا جاتا ہے "فلان المفرغ الكفف" یعنی فلاں چوڑے اور بلند موٹھے کا ہے۔
 فرعون فرعونۃ : الرجل : تکبر کرنا۔ چالاک ہونا۔
 تفرغ عن : النبات : لمبی اور قوی ہونا۔ فلان غلیبا : سرکشی اور ظلم کرنا۔ فراعنه : کے اخلاق کو اختیار کرنا۔
 فرعون و فرعون و فرعون : مصر کے بادشاہ کا لقب۔ شریر۔ سرکش۔ ج فراعنه۔
 فرع (فن) و فرغ (س) فرعا و فروعا : من العمل : کام سے خالی ہونا۔ لہ والیہ : تصد کرنا الرجل فروعا : مرنا۔
 فرع دمه : رائیگاں جانا۔ مطالبہ نہ کیا جانا من الشی : پورا کرنا۔ تمام کرنا الظرف : برتن کا خالی ہونا (..... فروعا) علیہ الماء : گرانا۔
 فرع (ک) فراعۃ : رنجیدہ ہونا۔ گھبرانا۔ فرغت الطغنة : وسیع ہونا۔ صفت (فریغۃ) فرغ (س) فراعا : الماء : پانی کا گرنا۔
 الفرغ و فرغ : الماء : پانی گرانا الاناء : برتن خالی کرنا الدماء : خون بہانا کہا جاتا ہے "فرغ اللہ علیہ الصبر" یعنی اللہ اس کو صبر دے۔ الفرغ الذهب ونحوہ : سانچہ میں ڈھالنا۔
 تفرغ : کام سے خالی ہونا الامر : کوشش کرنا۔
 إفرغ : الماء : اپنے اوپر پانی گرانا۔
 استفرغ : قے کرنا مجهودۃ لكذا : طاقت صرف کرنا۔
 الفرغ : برتن کا کنارہ جس سے پانی گرایا جائے۔ کہا جاتا ہے "هذه طغنة ذات فرغ" یہ نیزے کا زخم چوڑا ہے۔ قط زدہ زمین۔ ج فروع۔
 الفرغ : فراغت کہا جاتا ہے "ذهب دمه فروعا او فروعا" یعنی اس کا خون رائیگاں گیا۔

الفرغ : فارغ۔
 الفرغ : ذول کا کنارہ جس سے پانی گرایا جائے۔ برتن۔ بڑا پیالہ۔ جانور کے ایک طرف کا بوجھ۔ چوڑا نیزہ۔ کشادہ رفتار کا جانور ج فریغۃ : کہا جاتا ہے "رجل فرغ" یعنی تیز رفتار وسیع القدم مرد۔
 الفرغ : چوڑا۔ ہموار زمین۔ کشادہ رفتار جانور ج فرغ۔ رجُل فریغ : تیز زبان مرد۔ طریق فریغ : کشادہ راستہ۔ ضربۃ فریغ و فریغۃ : تلوار کا کشادہ زخم جس سے خون بہے۔
 الفرغۃ : مؤنث فریغ : زیادہ پانی کا چھاگل۔
 الافرغ : فارغ۔ مؤنث فرغاء طغنة فرغاء : کشادہ زخم۔
 الفرغان : کشادہ برتن۔
 فرغهم (مفرغ و مفرغ) سانچہ میں ڈھلا ہوا جس پر شیعہ نہ ہو۔
 فرس (مستفرغ) بہت تیز دوڑنے والا گھوڑا۔
 انفرغ : بجلی والا جسم۔ نہ باتہ جسم۔ بجلی کی لہر کا بجلی کیس میں گزرتا۔
 الفرغ : نرم و چکنی زمین۔
 الفرغین : ایک بڑی کا نام جو کھائی جاتی ہے۔
 الفرغ : لمبے پروالا۔ گہوں کا پھٹکن۔
 الفرغیص والفرغیصۃ : مضبوط شیر۔
 فرغ فرغۃ : تیز چلنا اور قدم قریب قریب رکھنا البعیر : بدن کو جماڑنا الرجل فی کلامہ : خط ملط کرنا اور بڑھانا الشی : جماڑنا اور حرکت دینا۔ توڑنا الذئب الشاة : بکلے بکلے کرنا الرجل : غیب کرنا۔ بے عزت کرنا فلانا : فریاد کرنا۔ فرقر الفرس اللحام : سر سے علیحدہ کرنے کے لئے حرکت دینا۔
 الفرغ والفرغ : چڑیا۔
 الفرغ والفرغ والفرغ والفرغ : شیر

جو اپنے مقابل کو پھاڑ دے۔ بھڑ یا بکری یا جنگلی گائے کا بچہ۔ جوان لڑکا۔ الفُرقا: بے وقوف۔ بہت بکواس کرنے والا۔
 الفُرقس: گھوڑا اپنے منہ میں لگام کو حرکت دینے والا۔
 الفُرقار: ایک درخت ہے جس سے پیالے بنائے جاتے ہیں اور جو آگ سے کم جلتا ہے۔
 الفُرقار: شیر جو اپنے مقابل کو پھاڑ دے۔
 فرق (نض) فَرْقًا و فَرْقَانًا. بَيْنَهُمَا: جدا کرنا۔ البحر: سمندر کو پھاڑنا (فَرْقًا) الشَّعْر: بال میں ماگ نکالنا۔ الطَّالِب: پرندہ کا بیٹ کرنا۔
 فرق (ن) فَرْوَقًا. لَهُ الطَّرِيقُ: راستہ کا واضح ہونا۔ الامْرُ لِفُلَانٍ: روشن ہونا۔ فَرْقَبَ النَّاقَةَ: اونٹنی کا دروزہ والی ہونا۔ لَهْ عَنِ الشَّيْءِ: ظاہر کرنا۔
 فرق (س) فَرْقًا. مِنْهُ: گھبرانا۔ کہا جاتا ہے "الفرق خير من حُب" خوف محبت سے بہتر ہے۔ یعنی تم سے لوگوں کا خائف رہنا تمہارے ساتھ محبت کرنے سے بہتر ہے۔
 فرق الرَّجُلِ: سوج میں داخل ہونا۔
 أفرق: الطَّالِبُ: پرندہ کا بیٹ کرنا۔
 الطَّالِبُ: پرندہ سے بیٹ کرنا۔ السَّرِيضُ: مرنصبہ: مریض کا صحت یاب ہونا۔
 غَمَمَهُ: بکریوں کو ضائع کر دینا۔ کھودینا۔
 فرق تَفْرِيقًا و تَفْرِيقَةً. الشَّيْءُ: جدا جدا کرنا۔ السَّرَجُ: خوف دلانا۔ السَّعْرَةُ: بال المَشْطُ: نکلنے سے ماگ نکالنا۔
 فَارَقَهُ فِرَاقًا و مُفَارَقَةً: جدا ہونا۔
 فرق تَفَرَّقًا و تَفَرُّقًا و اِفْتَرَقًا و تَفَارُقًا: ضد ہے تَجَمُّع اور اِجْتِمَاع و تَجَامُع کی کہا جاتا ہے "تَفَرَّقَتْ بِهِمُ الطَّرِيقُ" یعنی ہر ایک ایک راستہ کو ہولیا۔
 اِنْفَرَقَ. عَنْهُمْ: جدا ہونا۔ لَهْ الطَّرِيقُ: راستہ کا واضح ہونا۔

الفُرق: مصل۔ ماگ۔ کتان۔
 الفُرقُ: لڑکوں کا گروہ۔ قسم۔ ہر چیز کا ٹکڑا۔ بکری وغیرہ کا گلہ۔
 الفُرق: مصل۔ گھبرانا۔ ماگ۔ صبح یا ابتداء صبح اُفراق و اُفْرُقُ. الفُرق: دو دانتوں کا فاصلہ فُوقِ الخَيْلِ: گھوڑے کی ایک سرین سے دوسرے کی بلندی اور یہ غیر محبوب ہے۔
 الفُرقان: مصل۔ ہر وہ چیز جس سے حق و باطل کے درمیان فرق ہو۔ دلیل۔ مدد صَبِحَ ﴿يَوْمَ الْفُرْقَانِ﴾: جنگ بدر کا دن۔
 والفُرق: توراہ۔ قرآن۔ الفُرق: ناپنے کا ایک برتن۔
 الفُرقَة: لوگوں کی ایک جماعت ج فرق۔
 الفُرقَة و الفُراق: جدائی۔
 الفُرق و الفُرق و الفُرق و الفُرق و الفُرق و الفُرق: بہت گھبرانے والا۔ مَوْنَتْ فَرْقَةً و فَرْقَةً. نَبَتْ فُرق: متفرق نباتات یا چھوٹے چھوٹے جوتے جوتے کو نہ دھیں۔
 الفُرق و الفُرق و الفُرق و الفُرق و الفُرق و الفُرق: مَوْنَتْ (بہت گھبرانے والا۔ بزدل۔
 الفُرق: ریوڑ۔ فرقہ سے بڑی جماعت۔
 فُرق الخَيْلِ: آگے بڑھنے والا گھوڑا ج اُفْرَقَاء و اُفْرُقَةً و فُرق۔
 الفُرقَة: بکریوں کا ریوڑ۔ ایک قسم کا کھانا جو زچہ کو دیا جاتا ہے۔
 الاُفْرُق: ماگ والا جس کے داڑھی کے بال یا پیشانی کے بال میں ماگ ہو۔ جس کے دانت جدا جدا ہوں۔ دَبْكُ اُفْرُق: مرغ جس کی کٹنی شاخ شاخ ہو۔ تَبَسُّ اُفْرُق: مینڈھا کہ جس کے سینگوں میں ڈوری ہو۔ مَوْنَتْ فُرقَاء۔
 الفُرق: فَا۔ مَوْنَتْ۔ فُرق ج فُرق و فُرق و فُرق: آبر کا ٹکڑا جو بادلوں سے جدا ہو۔ دروزہ میں جتنا اونٹنی ج فُرق و فُرق و فُرق ج فُرق۔
 الفُرق: ہر وہ چیز جو حق اور باطل کے

درمیان فرق کرنے والی ہو۔
 الفُرق: وہ شخص جو امور کا فیصلہ کرے۔ لقب خلیفہ دوم (رضی اللہ عنہ) کا کہا جاتا ہے "صَمٌّ" (تَفَارِيقُ) مَتَاعِهِ یعنی اس نے متفرق سامان کو اکٹھا کیا۔ "وَأَخَذَ حَقَّهُ بِالتَّفَارِيقِ" یعنی اس نے اپنا حق تھوڑا تھوڑا کر کے لیا۔
 الفُرق و المَفْرُق. مِنَ الطَّرِيقِ: راستہ کا وہ حصہ جہاں سے مختلف راستے نکلیں۔
 مِنَ الشَّعْرِ: ماگ ج مَفَارِقُ: کہا جاتا ہے وَقَفَهُ عَلَى مَفَارِقِ الْحَدِيثِ: یعنی اس نے بات کی وجہ و اسخ سے واقف کیا۔
 الفُرق: قطب شمالی کے قریب ایک روشن ستارہ کا نام اور اسی کے پہلو میں ایک دوسرا ہے جو اس سے کم روشن ہوتا ہے اور یہ دونوں فُرقدان: کہلاتے ہیں۔
 مِنَ الْأَرْضِ: سخت ہموار زمین۔
 الفُرق: نبل گائے کا بچہ ج فُرق۔
 فُرق فُرقَةً و فُرقًا: تیز دوڑنا۔ گوز کرنا۔ صفت (فُرقاع)..... الاَصْبَاعُ: اُٹھیاں چٹخانا۔ فُلَانًا: گردن مروڑنا۔
 تَفَرَّقَ: اُٹھیلوں کا چٹخنا۔
 اِفْرَقَ: اُٹھیلوں کا چٹخنا۔ غَنَمَهُ: ڈور ہونا۔ یکسو ہونا۔
 الفُرقَة: ڈیر۔
 فُرق (ن) فُرقًا. التَّوْبُ: کپڑے کو ملنا۔
 الشَّيْءُ عَنِ التَّوْبِ: کھرچنا۔ السَّجُورُ و نَحْوَهُ: اخروٹ وغیرہ کو دل کر چھلکا اتارنا۔
 فُرق (س) فُرقًا و فُرقًا و فُرقًا و فُرقًا و فُرقًا و فُرقًا: بغض رکھنا اور کہا گیا ہے کہ زوجین کے ساتھ مخصوص ہے۔
 فُرق (س) فُرقًا. الاذُنُ: کان کی جڑ کا ڈھیلہ ہونا۔ صفت (فُرقَة و فُرقَاء) فُرقَة: ملنے میں مبالغہ کرنا۔
 فُرقَة: مَفَارِقَةً: چھوڑنا۔

أَفْرَكُ. السَّنْبَلُ: طے کے قابل ہونا۔

تَفْرَكُ: چال یا گفتگو میں اٹکنا۔

(.....) وَأَنْفَرَكَ (ملا جانا۔ کہا جاتا ہے "انْفَرَكَ مَنْكَبُ فَلَانٍ" یعنی فلاں کا مونڈھا اٹھ گیا۔

اسْتَفْرَكَ. الحَبُّ فِي السَّنْبَلَةِ: دانہ کا خوشہ میں سخت اور موٹا ہونا۔

الفُرُوكُ: بغض۔ بغض زوجین۔

السْفَرِكُ: چمکا کا تارا ہوا کہا جاتا ہے لَوْزٌ فَرَكٌ.

السَّفَارِكُ: فال۔ امْرَأَةٌ فَارِكٌ: شوہر سے بغض رکھنے والی ج فوارک.

السْفَرُوكُ: بغض رکھنے والا۔ شوہر سے بغض رکھنے والی عورت۔

السْفَرِيكُ: ملا ہوا دانہ۔ غلہ جو ملا جائے اور گھی ملا کر پکایا جائے۔

السْمَفْرُوكُ: مٹع من الابل: وہ اونٹ جس کے مونڈھے کی ہڈی اپنی جگہ سے ہٹ گئی ہو اور مونڈھا چمچد گیا ہو..... من اليباب: بہت گہرا رنگ ہوا کپڑا۔

المُفْرَكُ: مٹع۔ چھوڑا ہوا۔ مبعوض۔

الْمَفْرُوكَةُ: وہ حلوہ جو میدہ گھی اور چینی سے بنایا جائے اور اس پر چلغوزے اور بادام کھیر دیے جائیں۔

أَفْرَمٌ: الاناء: برتن کو بھرنا۔

الاقفوم: گرے ہوئے دانت والا۔

فَرَمٌ يَفْرُمُ: گوشت کا ٹٹا۔ فَرَمٌ الْوَلْدُ: بچوں کے دانت تبدیل ہونا۔ السْفَرْمَةُ: گوشت یا تمباکو کا کلکا۔

الفرمان: پروانہ شاہی ج فرامین.

الفرقن: تنور۔ ج الفرقان.

الفرقان: تنور کا مالک۔ روٹی پکانے والا۔

الفارئة: روٹی پکانے والی۔

السْفَرْنِي: گول موٹی روٹی واحد (سْفَرْنِيَّةٌ) سخت بدن کا آدی۔

الْفَرْنُكُ: ج فَرْنُكَاث: "فرک"۔ ملک

فرانس کا سک (اگر چاہ وہاں "یورد" بھی

راج ہو چکا ہے)۔

الفِرْنُدُ: انا مردانہ۔ تلوار۔ جو ہر تلوار۔ تلوار کا نقش و نگار کہا جاتا ہے "سِنْفُ فِرْنُدٍ" بے مثل تلوار ج فِرَانِدُ. الفِرْنُدُ: ایک قسم کا کپڑا۔

الإفْرَنْدُ: جو ہر تلوار۔ نقش و نگار تلوار ج الإفْرَنْدَات.

فَرُوهُ (س) فَرُوهُ: خوش ہونا۔ اکرنا۔ صفت (فروہ)

فُرُوهُ (ك) فَرَاهَةٌ وَفُرُوهُةٌ وَفَرَاهِيَةٌ: ماہر ہونا۔ حاذق ہونا۔ خوش ہونا۔ سبک ہونا۔

صفت (فَارَةُ) أَفْرَةُ الرَّجُلُ: چست و چالاک غلام لینا۔

اسْتَفْرَوَةُ الذَّوَابِ: عمدہ جانور چھانٹنا۔

السْفَارُهُ: چالاک۔ خوب کھانے والا کہا جاتا ہے "رَجُلٌ فَارُهُ وَجَارِيَةٌ فَارَةٌ" ج فُرُوهُ وَفُرُوهُةٌ وَفُرُوهُةٌ وَفُرُوهُةٌ.

السْفَارِيَّةُ: مؤنث فَارَةُ: خوبصورت جوان لڑکی ج فَوَارَةُ وَفُرُوهُةٌ.

الاقفروہ: چالاک۔

فَرَهْدٌ: پھولنا۔ فَرَهْدَتُ نَفْسُهُ: تنگ ہونا۔

تَفْرَهْدُ: الغلام: لڑکے کا موٹا ہونا۔

السْفَرَهْدُ وَالْفَرَهْدُ وَالْفَرَهْدُ: موٹا تازہ لڑکا۔

السْفَرُهْدُ: بکری یا پہاڑی بکری کا بچہ ج فَرَاهِيْدُ.

فَرِيٌّ تَفْرِيَةُ الْحَبَّةِ: جبہ پر پوسٹین لگانا۔

الْفَرِيُّ: پوسٹین پہننا۔

السْفَرُوَةُ: صبح بالوں کے سر کی کھال۔ عورت کا سر بند۔ تاج۔ تو انگری۔ مالدار کی کہا جاتا ہے "ضْرِبَتْهُ عَلَيَّ أُمُّ فَرُوْتِيَّةٍ" اس کی چند یا پر مارا۔ سائل کا تحمیل۔ اونٹ کے بالوں کا کھیل۔

الْفَرِيُّ: پوسٹین جو بعض حیوانات کی کھال سے تیار کیا جاتا ہے۔ ج فِرَاءَةٌ.

الْفَرَاءُ: پوسٹین کا بنانے والا۔

فَرُوْرٌ فَرُوْرَةٌ: مرنا۔

فَرِيٌّ يَفْرِي فَرِيًّا. عَلَيْهِ الْكَذِبُ: کسی پر

جھوٹ باندھنا الْأَرْضُ: زمین میں چلنا۔ السَّمْرَادَةُ: توشہ دان بنانا الْبَرَقِيُّ: بجلی چمکانا۔

فَرِيٌّ وَفَرِيٌّ. الشَّيْءُ: کاٹنا اور پھاڑنا۔

فَرِيٌّ يَفْرِي فَرِيٌّ: مدہوش ہونا۔ تھیر ہونا۔

أَفْرِيٌّ. الشَّيْءُ: کاٹنا اور پھاڑنا۔ درست کرنا فَلَانًا: ملامت کرنا۔

تَفْرِيٌّ تَفْرِيًّا أَوْ انْفَرِيٌّ انْفَرَاءً: پھینٹنا۔ کہا جاتا ہے "تَفْرَبُ الْأَرْضُ بِالْعَيْنِ" زمین میں چشمے جھوٹ پڑے۔

انْفَرِيٌّ انْفِرَاءً. عَلَيْهِ الْكَذِبُ: کسی پر تہمت لگانا یا جھوٹ باندھنا۔

الْفَرِيَّةُ: فَرِيٌّ: کا اسم مرآة۔ شور۔

السْفَرِيَّةُ: جھوٹ۔ تہمت ج فَرِيٌّ. الفَرِيَّةُ: پھینٹنا ہوا۔ گھڑی ہوئی بات۔ عجیب کہا جاتا ہے "فَلَانٌ يَفْرِيُّ الْفَرِيَّةَ" فلاں تعجب انگیز

کام کرتا ہے اور اسی سے قرآن میں ہے ﴿لَقَدْ جَنَّتْ شَيْئًا فَرِيًّا﴾: یعنی تم نے ایسا کام کیا جس سے حیرت و تعجب ہے۔ مؤنث

فَرِيَّةٌ اور کہتے ہیں "السْفَرِيَّةُ الْفَرِيَّةُ" یعنی جلدی جلدی۔

الفَرِيٌّ وَالْفَرِيَّةُ: کشادہ ذول۔

السْفَرَا: تعجب۔ بزدل۔ کہا جاتا ہے "هَذَا (أَفْرِيٌّ) الْفَرِيُّ" یعنی جھوٹوں کا جھوٹ۔

فَرًا (ن) فَرًا: اکیلا ہونا عَنْهُ: جدا ہونا الظَّبْيُ: ہرن کا گھبراتا هُ: دھوکا دینا

اور غالب آنا۔ ہوش اُڑا دینا ه عَسِي مَكَايِبِهِ: گھبرادینا اور جگہ سے ہٹا دینا۔

فَرًا (ض) فَرِيْرًا: الجرح: زخم سے خون پیپ وغیرہ جاری ہونا۔

فَسْرَاةٌ وَفَرُوْرَةٌ: مضطرب ہونا اور بھڑک اُٹھنا۔

أَفْرَةٌ: گھبرادینا۔

الْفَرُّ: عَلَيْهِ: غالب ہونا۔

تَفَارًا: الرَّجُلَانِ: ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔

<p>کے جہنمیتین۔ فَسَخَّ: پیشاب کرنے کے لئے نالگیں پھیلاتا۔ أَفْسَجَ: غنہ: چھوڑنا۔ فَسَخَ (ف) فَسَخًا: کشادہ قدم رکھنا۔ لَهُ فِي السَّفَرِ: پروانہ راہ داری دینا۔ (.....) فَسَخًا وَفُسُوخًا لَهُ فِي الْمَجْلِسِ: کشادگی کرنا۔ فَسَخَ (ك) فَسَاخًا: الْمَكَانَ: وسیع ہونا۔ صفت (فَسِيخٌ وَفَسَاخٌ وَفُسُخٌ) مبالغہ کے لئے ہم کی زیادتی کے ساتھ۔ أَفْسَحَ الْمَكَانَ: وسیع ہونا۔ تَفَسَّخَ: کشادہ ہونا..... لَهُ: کشادگی کرنا۔ تَفَسَّخُوا فِي الْمَجَالِسِ وَتَفَاسَّخُوا: کشادگی کرو۔ فَسَّحَ الْمَكَانَ: کشادہ کرنا..... لَهُ فِي الْمَجْلِسِ: کشادگی کرنا۔ إِنْفَسَخَ الْمَكَانَ: کشادہ کرنا..... صَدْرُهُ: کشادہ دل ہونا۔ الْفَسْحُ: مہم۔ پروانہ راہ داری۔ الْفَسْحَةُ: گنجائش۔ مکانوں کے درمیان کشادگی جہنمیتین۔ الْفَيْسُخِيُّ: قدم کی چوڑائی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ يَمْسِيهِ الْفَيْسُخِيُّ" وہ کشادہ کشادہ قدم رکھ کر چلتا ہے۔ فَسَخَ (ف) فَسَخًا: جاہل ہونا۔ ضعیف الحقل ہونا..... رَأَى فَلَانَ: فاسد کر دینا۔ بِكَارِ دِينًا..... الْأَمْرَ أَوْ الْعَقْدَ: توڑ دینا..... النَّسِيءُ: جدا جدا کرنا..... السُّوْدَ أَوْ الْمَقْصَلَ: لکڑی یا جوڑو جگہ سے ہٹا دینا..... الْقَوْبَ عَنْهُ: کپڑے کو اتار دینا۔ فَسَخَ (ف) فَسَخًا وَفَسِيخًا (س) فَسَخًا الزَّائِي: خراب ہونا۔ فَسَخًا: فسخ میں مبالغہ کرنا۔ فَاسَخَهُ: الْعَقْدَ أَوْ الْبَيْعَ وَتَفَاسَّخًا الْعَقْدَ أَوْ الْبَيْعَ: عقد یا بیع کے توڑنے پر متفق</p>	<p>..... الرَّجُلُ: فریادری کرنا۔ مدد کرنا۔ مِنْ نَوْمِهِ: بیدار ہونا..... فَنَزَعًا لِمَجْعَةٍ فَلَانَ: کسی کے آنے کی وجہ سے تیاری کرنا۔ أَفْزَعَهُ: خوف دلانا۔ گھبراہٹ دور کرنا۔ أَفْرَعَ الْقَوْمَ: فریادری کرنا..... ه مِنْ النَّوْمِ: بیدار کرنا..... الْفَزَعُ عَنْهُ: گھبراہٹ زائل کرنا۔ فَزَعُهُ: خوف دلانا۔ فَزَعَهُ: گھبراہٹ دور کرنا۔ الْفَزَعُ: مہم۔ گھبراہٹ۔ فریادری۔ الْفَزَعَةُ: وہ شخص جس سے لوگ گھبرائیں۔ الْفَزَعَةُ: لوگوں سے بہت گھبرانے والا۔ الْفَزَاعُ: خائف۔ فریادی۔ جہنمیتین۔ الْفَزَعُ وَالْمُفْزِعُ: خائف۔ فریادی۔ الْفَزَاعَةُ: بہت گھبرانے والا۔ وہ شخص جو لوگوں کو بہت گھبرادے۔ اُجْجَا (کھیت کا) الْمَفْزَعُ وَالْمَفْزَعَةُ: جائے پناہ۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ مَفْزَعٌ أَوْ مَفْزَعَةٌ لِلنَّاسِ" فلاں لوگوں کے لئے جائے پناہ ہے یعنی جب ان کو اہم معاملہ پیش آتا ہے تو اس کی پناہ لیتے ہیں۔ دونوں صیغے واحد جمع مذکر مؤنث کے لئے مستعمل ہیں۔ الْمَفْزَعُ: بزدل۔ بہادر۔ فَسَاةُ (ف) فَسَاةً: لالچی سے مارنا..... ه عَنِ كَذَا: روکنار..... وَفَسَاةً تَفْسِينًا وَتَفْسِينَةً الْقَوْبَ: کپڑا پھاڑنا۔ فَسِيءٌ (س) فَسَاةً: اُبھرے ہوئے سید اور دھنسی ہوئی پیٹھ والا ہونا۔ اُبھرے ہوئے چیز والا ہونا۔ صفت (أَفْسَأَ مَوْنِثٌ فَسَاةً. تَفْسَأَةُ: لالچی سے مارنا۔ تَفْسَأَ الْقَوْبَ: کپڑے کا پھٹنا۔ بوسیدہ ہونا..... الْمَرْصُ فِيهِمْ: بیماری پھیل جانا۔ تَفَاسًا تَفَاسُوا: الرَّجُلُ: پیٹھ اور چوڑو کو ظاہر کرنا۔ الْفَسَقُ وَالْفَسَقِي: پست۔ الْفَسْتِي: پستی رنگ کا۔ الْفَسْتَانُ: عورتوں کا ایک لباس بمنزل قباہ</p>	<p>إِسْفَرَةٌ: ہلکا جانا۔ ذلیل سمجھنا۔ مضطرب کر دینا۔ گھر سے نکال دینا۔ قتل کرنا..... مِنْ الشَّيْءِ: نکالنا۔ الْفَرْ: مہم۔ ہلکا چمکا آدی۔ نیل گائے کا بچہ جہنمیتین۔ الْفَرْ: خوف و دہشت کی جھلاگ۔ کہا جاتا ہے قَعْدَ (مُسْفَرًا) یعنی غیر مطمئن بیٹھنا۔ فَرْزَةٌ (ن) فَرْزًا: پھاڑنا۔ فسخ کرنا۔ توڑنا..... ه بِالْعَصَا: لالچی سے پیٹھ پر مارنا..... الشَّيْءِ مِنَ الشَّيْءِ: ایک چیز کو ایک چیز سے جدا کرنا۔ فَرْزٌ (ن) فَرْوُزًا: پھٹنا۔ فَرْزٌ (س) فَرْوًا: پیٹھ یا سینہ میں گانٹھ پڑ جانا۔ صفت (الْفَرْزُ) فَرْوًا وَفَرْزًا: الشَّيْءُ: ریزہ ریزہ کرنا۔ تَفَرْزٌ وَالْفَرْزُ: پھٹنا..... الثَّوْبَ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ الْفَرْزُ: بکریوں کا چھوٹا سا بچہ اور کہا گیا ہے کہ دس اور چالیس بکریوں کے درمیان بکری کا بچہ۔ شیر بکری کا بچہ۔ جڑ۔ غدود جو دان کے اوپر کے حصے میں نکلے۔ الْفَرْزُ: پھٹنا۔ شگاف۔ گویا کہ یہ فَرْزَةٌ کی جمع ہے۔ الْفَرْوُ: پھٹنا۔ شگاف۔ الْفَرْزَةُ: پیٹھ یا سینہ میں گانٹھ۔ کشادہ راستہ۔ جہنمیتین۔ الْفَارِزُ: فال۔ کالی جیوتی جس میں سرخی ہو۔ کشادہ طویل راستہ۔ الْفَارِزَةُ: مؤنث فارز: ریگستان کا راستہ۔ الْفَرْزَاءُ: مؤنث الفز: ہڈ گوشت عورت۔ قريب البلوغ لڑکی۔ الْفَرَاةُ: چیتا کی مادہ۔ الْمَسْفَرُورُ: مفتح۔ کپڑا۔ پیٹھ یا سینے میں گانٹھ والا۔ فَزَعٌ (ف) فَزَعًا وَفَزَعًا: منہ: خوف کرنا۔ فَزَعٌ (س) فَزَعًا: دہشت زدہ ہونا۔ خائف ہونا..... إِلَيْهِ: فریاد چاہنا۔ پناہ لینا</p>
---	---	--

ہونا کہا جاتا ہے "تَفَاسَخَتْ اِلَاقَاوِئِلُ" یعنی اقوال متناقض ہو گئے۔

الْفَسْحُ: الْكِتَابُ: بَجَوْلَانِ۔

تَفْسُخٌ: بَكَرَ لَمْ يَكْرُ L

السَّجْدُ: بَالُ كَالْحَالِ سَهْمٌ جَانَا (اور یہ میت کے لئے خاص ہے)

الْفَسْحُ الْعَزْمُ أَوْ الْعَقْدُ: لُوثَانُ۔

الْفَسْحَةُ: نَحْ كَالِاسْمِ مَرَّةً مَكْرًا كَمَا جَاءَتْ فِي

"رَجُلٌ فَسْحَةٌ" یعنی کمزور بدن یا ضعیف العقل مرد۔

الْفَسْحُ وَالْفَسِيخُ: وَهُوَ فَضْلٌ جَوَانِي حَاجَاتٍ

مِنْ كَامِيَابٍ نَهْ وَهُوَ أَرِيضٌ أَمْرًا كَالنِّسْبِ نَهْ

كِرْكِي كَمَزُورِ بَدَنِ يَأْتِي عَقْلًا وَآلَا كَمَزُورِ جِسْمِ

كَأَرَادَهُ تَحْتِي يَأْتِي مَصِيبَتِ كَيْ وَتَقْتِ نُوْتِ

جَاءَ۔

الْفَسْحُ: مَوْتٌ كَالْبَدْرِ وَجَوَانِي يَأْتِي

جَمَادَاتٍ مِثْلَ مَوْتِ جَوَانِي يَأْتِي كَمَوْتِ

أَدَاوِنِ كَيْتِي يَأْتِي۔

الْفَسِيخُ: نَمَكٌ لَغَائِي مَجْهُولٌ۔

فَسَدٌ (ن ض) وَفَسَدٌ (ك) فَسَادًا

وَفُسُودًا: خَرَابٌ هُوَانُ مَجْرُجَانَا مَفْتٌ

(فَسِيدٌ) رَجُ فُسْدِي (وَفَسِيدٌ)

أَفْسَدُهُ وَفَسَدُهُ: خَرَابٌ كَرْنَا بَكَرْنَا۔

فَسَادَةُ الْقَوْمِ: قَوْمٌ كَالسَّاحِدِ بَدَلُوكِي كَرْنَا۔

تَفْسَادُ الْقَوْمِ: قَطْعٌ رَجْمِي كَرْنَا۔ آيِسِي مِثْلِ

مَخَالِفِي هُوَانُ۔

إِسْتَفْسَادٌ: تَبَاهِي جَابِهَانَا..... الْقَوْمِ: بَدَلُوكِي

كَرْنَا۔

الْفَسَادُ: مَمْسٌ كَمِثْلِي كَوْدِي ظَلْمَانَا لِينَا۔

الْمَفْسَدَةُ: مَصْدَرُ فَسَادٍ سَبَبُ فَسَادِي مَفْسَادِي۔

فَسَرَ (ن ض) فَسَرًا. الْاَمْرُ: وَاصِحٌ كَرْنَا۔

ظَاهِرٌ كَرْنَا..... الْمُعْطَى: ذُكْرٌ هُوَانَا كَمَكْمُولِي

دِينَا۔

فَسَرَ (ن ض) فَسَرًا وَتَفْسِيرَةً. الطَّيِّبُ:

طَيِّبٌ كَالْقَارُورَةِ دِينَا۔

فَسْرَةٌ: وَاصِحٌ كَرْنَا ظَاهِرٌ كَرْنَا۔

تَفْسَرٌ وَاسْتَفْسَرٌ. فَلَانَا عَنِ الْاَمْرِ

وَاسْتَفْسَرَةَ الْاَمْرِ: وَاصِحٌ كَرْنَا۔ وَاصِحٌ

كَرْنَا كَوَكْرَانَا۔

التَّفْسِيرُ: مَمْسٌ تَاوِيلٌ كَشْفٌ۔

وَصَاحَةٌ۔ مِثْلُ شَرْحِي رَجُ تَفْسِيرِي۔

وَحَرْفَانَا التَّفْسِيرُ: أُنَا أَوْرَانَا هِيَانَا

سَمِيحِي كِي جَوْتَفْسِيرِي جَاتِي هِيَانَا "هَذَا

عَسَجَدُ أَمِي ذَهَبٌ" أَوْرَانَا سَمِيحِي قَوْلِي كِي

تَفْسِيرِي جَاتِي هِيَانَا "نَاذِيكَ أَنْ أَعْمَلُ

سَمَدًا"۔

التَّفْسِيرَةُ: مَمْسٌ مَرِيضٌ كَالِإِشْبَابِي۔ هَرَجِي

جَمْسِي سَمِيحِي پَرَا سَمَدَلَالِي كَرِي۔

الْفُسْطُ وَالْفُسْطُاطُ وَالْفُسْطُاطُ: خَيْرٌ۔

أَوْنٌ كَالِخَيْرِي فَسْطُاطِي وَالْفُسْطُاطُ

بِالضَّمِّ: مَمْرٌ قَدِيمٌ كَالْعِلْمِي هِيَانَا كَلِمَتِي

مِثْلُ فُسْتَاتِي وَفُسْتَاتِي مَجْمُوعِي هِيَانَا۔

الْفَيْسُطُ: نَاخِنٌ كَالرَّاشِدِي وَاحِدٌ (فَيْسُطَةٌ)

الْفُسْطَانُ: دِي كَيْفِي فُسْتَانِي۔

الْقُنْفُسُ وَالْقُنْفَاسُ: بِي وَتَوَقُّفِي۔ كِي

بَدِي وَدَارِي بَاتِي رَجُ قُنْفَاسِي وَفَسَافِسِي۔

الْقُنْفَاسُ: مَجْمُوعِي۔

الْقُنْفُوسِيَاءُ: بِي كَارِي رَجْمِي بَرَكِي كِي

جَمُوعِي جَمُوعِي مَجْمُوعِي كَمَكْمُولِي كِي

مَجْمُوعِي كَمَكْمُولِي مَجْمُوعِي۔

الْقُنْفُوسِيَاءُ: بِي كَارِي رَجْمِي بَرَكِي كِي

جَمُوعِي جَمُوعِي مَجْمُوعِي كَمَكْمُولِي كِي

مَجْمُوعِي كَمَكْمُولِي مَجْمُوعِي۔

الْقُنْفُوسِيَاءُ: بِي كَارِي رَجْمِي بَرَكِي كِي

جَمُوعِي جَمُوعِي مَجْمُوعِي كَمَكْمُولِي كِي

مَجْمُوعِي كَمَكْمُولِي مَجْمُوعِي۔

الْقُنْفُوسِيَاءُ: بِي كَارِي رَجْمِي بَرَكِي كِي

جَمُوعِي جَمُوعِي مَجْمُوعِي كَمَكْمُولِي كِي

مَجْمُوعِي كَمَكْمُولِي مَجْمُوعِي۔

الْقُنْفُوسِيَاءُ: بِي كَارِي رَجْمِي بَرَكِي كِي

جَمُوعِي جَمُوعِي مَجْمُوعِي كَمَكْمُولِي كِي

مَجْمُوعِي كَمَكْمُولِي مَجْمُوعِي۔

يَعْنِي هِيَانَا كِي لَمَمْمُوعِي هِيَانَا كِي

الْقُنْفُوسِيَاءُ: بِي كَارِي رَجْمِي بَرَكِي كِي

جَمُوعِي جَمُوعِي مَجْمُوعِي كَمَكْمُولِي كِي

مَجْمُوعِي كَمَكْمُولِي مَجْمُوعِي۔

الْقُنْفُوسِيَاءُ: بِي كَارِي رَجْمِي بَرَكِي كِي

جَمُوعِي جَمُوعِي مَجْمُوعِي كَمَكْمُولِي كِي

مَجْمُوعِي كَمَكْمُولِي مَجْمُوعِي۔

الْقُنْفُوسِيَاءُ: بِي كَارِي رَجْمِي بَرَكِي كِي

جَمُوعِي جَمُوعِي مَجْمُوعِي كَمَكْمُولِي كِي

مَجْمُوعِي كَمَكْمُولِي مَجْمُوعِي۔

الْقُنْفُوسِيَاءُ: بِي كَارِي رَجْمِي بَرَكِي كِي

جَمُوعِي جَمُوعِي مَجْمُوعِي كَمَكْمُولِي كِي

مَجْمُوعِي كَمَكْمُولِي مَجْمُوعِي۔

الْقُنْفُوسِيَاءُ: بِي كَارِي رَجْمِي بَرَكِي كِي

جَمُوعِي جَمُوعِي مَجْمُوعِي كَمَكْمُولِي كِي

مَجْمُوعِي كَمَكْمُولِي مَجْمُوعِي۔

الْقُنْفُوسِيَاءُ: بِي كَارِي رَجْمِي بَرَكِي كِي

جَمُوعِي جَمُوعِي مَجْمُوعِي كَمَكْمُولِي كِي

مَجْمُوعِي كَمَكْمُولِي مَجْمُوعِي۔

الْقُنْفُوسِيَاءُ: بِي كَارِي رَجْمِي بَرَكِي كِي

جَمُوعِي جَمُوعِي مَجْمُوعِي كَمَكْمُولِي كِي

مَجْمُوعِي كَمَكْمُولِي مَجْمُوعِي۔

الْقُنْفُوسِيَاءُ: بِي كَارِي رَجْمِي بَرَكِي كِي

جَمُوعِي جَمُوعِي مَجْمُوعِي كَمَكْمُولِي كِي

مَجْمُوعِي كَمَكْمُولِي مَجْمُوعِي۔

الْقُنْفُوسِيَاءُ: بِي كَارِي رَجْمِي بَرَكِي كِي

جَمُوعِي جَمُوعِي مَجْمُوعِي كَمَكْمُولِي كِي

مَجْمُوعِي كَمَكْمُولِي مَجْمُوعِي۔

الْقُنْفُوسِيَاءُ: بِي كَارِي رَجْمِي بَرَكِي كِي

جَمُوعِي جَمُوعِي مَجْمُوعِي كَمَكْمُولِي كِي

مَجْمُوعِي كَمَكْمُولِي مَجْمُوعِي۔

الْقُنْفُوسِيَاءُ: بِي كَارِي رَجْمِي بَرَكِي كِي

جَمُوعِي جَمُوعِي مَجْمُوعِي كَمَكْمُولِي كِي

مَجْمُوعِي كَمَكْمُولِي مَجْمُوعِي۔

الْقُنْفُوسِيَاءُ: بِي كَارِي رَجْمِي بَرَكِي كِي

الفَسَاءُ: مص۔ بلا آواز کے گوز۔ پھسکی۔
 الفَسْوَةُ: ایک مرتبہ کی پھسکی ج فَسَوَاتِ
 فَسَوَاتِ الصَّبَاعِ: سانپ کی چھتری۔
 الفَاسِيَةُ وَالْفَاسِيَاءُ: گہریلا۔ ج فَوَاسِ
 الفَسْوُ وَالْفَسَاءُ: بہت گوز کرنے والا۔
 المَفْسِيُّ: ڈیر۔

الْفَيْسُولُ جِيَا او الْفَيْزُولُ جِيَا: اعضاء کے
 کاموں کا علم۔

فَشَّ (ن) فَشًّا: ڈکار لینا۔ آہستہ آہستہ
 پھونکنا..... الْوَطْبُ: سر بند کھول کر ہوا نکال
 دینا۔ مکھن نکالنا..... السَّاقَةُ: اونٹنی کو جلدی
 سے دوھنا..... الْبَابُ: دروازہ کو جلد سے
 بغیر کئی کے کھولنا..... بَيْنَ الْقَوْمِ: چغل خوری
 کرنا۔

فَشَّ السَّقَاءُ: ہوا نکال دیا جانا۔

انْفَشَّ: الجُرْحُ: زخم کی سوجن ڈھل جانا
 الْبَسْنُ: دودھ جاری ہونا..... السَّرْجُلُ
 عَنِ الْأَمْرِ: کابل ہونا۔ انْفَشَّتِ الرِّيحُ:
 دپانے سے ہوا کا مشک وغیرہ سے ٹکنا.....
 عِلَّةُ فُلَانٍ: بیماری کا زائل ہونا۔

الفَشُّ: مص (..... والفَشْوَشُ) بے
 وقوف۔ کمزور رائے والا۔ باطل پر فخر کرنے
 والا۔ موٹا کبیل۔ درخت خرواب۔ پانی
 رسنے کی جگہیں۔ الفَشْوَشُ: پانی ٹپکنے والی
 مشک۔

الفَشَّاشُ: صیغہ مبالغہ۔

الفَشْيُوشُ: آواز اور اسی سے ہے "فَشْيُوشُ
 الْأَقْسَى" سانپ کے کھال کی آواز چلنے
 میں۔

الفَشَّوْشُ: ضعیف رائے اور کمزور ارادہ
 والا۔

رَجُلٌ مُنْفَشٌّ: منْحَرَتَيْنِ: چھوٹے بانسہ
 کے ساتھ چھوٹے ہوئے تختوں والا۔

فَشًّا (ف) فَشًّا: ناز کرنا۔

أَفَشًّا: بزرگی جتان۔ گردن کشی کرنا۔

تَفَشًّا: المَرَضُ بِالْقَوْمِ: قوم میں بیماری
 پھیل جانا۔

فَشَّجَ (ض) فَشَّجًا وَفَشَّجًا وَتَفَشَّجَ
 وَانْفَشَّجَ: الرَّجُلُ او الْعَيْزُ: مرد یا اونٹ کا
 پیشاب کرنے کے لئے ناک میں پھیلا نا۔

فَشَّخَهُ (ف) فَشَّخًا: ظلم کرنا۔ بچوں کے
 کھیل میں طمانچہ مارنا۔ فَشَّخَ هِيَ اللَّعِيبُ:
 کھیل کود میں جھوٹ بولنا اور ظلم کرنا۔

فَشَّخَ: الرَّجُلُ: جوڑوں کو ڈھیل کرنا۔
 انْفَشَطَ: الْعُوْدُ: ترکازی کا ٹوٹ جانا۔

فَشَّعَتِ (ف) فَشَّعًا: الذَّرَّةُ: چینا کے
 اطراف کا سوکھنا۔

الْفَشَّاعُ وَالْفَشَّاعُ: امر کی علاقہ کا پودا
 جس کی ادویات بھی بنتی ہیں۔

فَشَّغَهُ (ف) فَشَّغًا: بلند ہو کر ڈھانپ لینا۔
 هُ بِالسَّوْطِ: کوڑے سے مارنا۔ صفت

(فَاشِغٌ) مَوْتٌ فَاشِغَةٌ..... الشَّيْ: وسیع
 ہونا۔ منتشر ہونا۔

أَفَشَّغَهُ: بِالسَّوْطِ: کوڑے سے مارنا۔
 فَشَّغٌ: بَحْتِي فَشَّغٌ..... ه النَوْمُ: نیند غالب۔
 آتا۔

تَفَشَّغَ: الشَّيْبُ فِيهِ وَتَفَشَّغَهُ: بڑھا پا
 ظاہر ہونا..... الْبِيوتُ: گھروں میں داخل ہونا۔

الرَّجُلُ: موٹے کھر درے کپڑے پہننا۔
 تَفَشَّغَتِ الْغُرَّةُ: پیشانی کی سفیدی کا پھیل کر
 آکھ کو گھر لینا۔

انْفَشَّغَ: الشَّيْ: کشادہ ہونا۔ بہت ہونا۔
 ظاہر ہونا۔

الفَشَّغَةُ: اسم مرآة: عشق پہچان۔ نکل کا
 گودا۔ ناصیۃ (فَاشِغَةٌ وَفَشَّغَاءُ) پیشانی
 کے پھیلے ہوئے بال جو آکھ کو ڈھانپ لیں۔
 الفَشَّاعُ وَالْفَشَّاعُ: آکھ بیل۔

الفَشَّاعُ: کابل۔

الاقشع: مینڈھا جس کی سینگیں دائیں
 بائیں نکل گئی ہوں۔ رَجُلٌ أَفْشَغُ الْأَسْنَانُ:
 مرد جس کے دانت پر آگندہ ہوں۔ مَوْتٌ
 فَشَّاعٌ ج فَشَّاعٌ.

المفشع: جو اپنے ساتھی کا برائی سے مقابلہ
 کرے۔

المُفْشِغُ: بے خبر۔ بے فیض۔

فَشَّفَشَ: کمزور رائے والا ہونا۔ خوب
 جھوٹ بولنا۔ غیر کی چیز کو اپنی طرف نسبت
 کرنا۔ صفت (فَشَّفَاشٌ)..... بَيُولُهُ:
 پیشاب کرنا۔

الفَشَّفَاشُ: مِنَ السَّوْقِ: اونٹنی کہ جس کا
 دودھ دوھنے کے وقت پر آگندہ نکلے۔

الفَشَّفَاشَةُ: نرم چیز۔ کہا جاتا ہے "تُخْرِجُ
 الزُّبْدَةَ فَشَّفَاشَةً" مکھن نرم نکلتا ہے۔

فَشَّقُ (س) فَشَّقًا: آدھی کو چھوڑ کر ساری
 کو دوڑنا۔ آدھی رہے نہ ساری پانا..... هُ:
 اچانک آتا..... الظَّنِيُّ: بہرں کا ڈور ڈور

سینکوں والا ہونا۔ صفت (أَفَشَّقُ) مَوْتٌ
 فَشَّقًا.

فَشَّقُ (ض) فَشَّقًا: الشَّيْ: توڑنا۔

فَاشَّقُهُ: اچانک آتا۔

تَفَشَّقُ: بَيُولُ: کپڑے کو بدھی جیسا بنانا۔

الفَشَّقُ: مص۔ دوڑ۔ بھاگ۔ جستی۔

الفَشَّكُ: کار توں۔ واحد (فَشَّكَةٌ)
 ذیل۔

فَشَّلَ (س) فَشَّلًا: کمزور و بزدل ہونا۔

صفت (فَشَّلٌ وَفَشَّلٌ وَفَشَّلٌ) ج فَشَّلٌ
 وَأَفْشَالٌ.

فَشَّلَ (ن ض) فَشَّلًا: لَبْحِنَهُ: داڑھی
 پھٹکارنا۔

فَشَّلْتُ وَتَفَشَّلْتُ وَأَفْشَلْتُ الْمَرْأَةَ:
 عورت کا پاگلی کا پردہ بنانا۔ تَفَشَّلَ الْمَاءُ:
 پانی بہنا..... الرَّجُلُ مِنْهُمْ أَمْرًا: نکاح
 کرنا۔

الفَشَّلُ: پاگلی کا پردہ۔ ہودج کا پردہ۔ ہودہ
 کے اندر بچھانے کی چیز۔ ج فَشْوَلٌ.

الفَشَّالُ: ہودہ کا پردہ۔ ہودہ کے اندر
 بچھانے کی چیز۔ ج فَشَّالٌ. الفَشَّالُ: وہ
 شخص جو غیر قوم میں شادی کرے تاکہ اولاد
 لاغیر نہ ہو۔

الفَشَّيْلُ: مص۔ تھن میں بقید دودھ۔ ج
 تَفَاشِيْلٌ.

الْفَصِيحُ: واضح۔ يَوْمٌ مُفْصِحٌ: بے بادل کا دن۔	فَصُّ الْمَاءِ: بلبرج فَصُوصٌ وَفِصَاصٌ وَأَفْصٌ.	الْأَفْصِيحُ: جِ أَفْصِيحِينَ: رومی لوگوں کی نماز کا ایک حصہ۔
فَصْحٌ (ف) فَضْحًا: عَنِ الْأَمْرِ: جان بوجھ کر غفلت کرنا۔ الْعَوْدُ أَوْ الْمَفْضَلُ: نکلڑی یا جوڑ کو اکھیڑنا۔	الْفَصَّاصُ: گمبیز لگانے والا۔ الْفَصِيصُ: صاف گھٹلی گویا روغن ملی ہوئی۔	فَحْشًا يَفْشُو فَشْوًا وَفُشْوًا وَفُشْيًا خَيْرُهُ أَوْ فَضْلُهُ أَوْ سِرُّهُ: خبر یا نصیحت یا بھید ظاہر ہونا۔ پھیل جانا۔ فَشَبَتِ الْمَاشِيَةُ: چراگاہ میں جانا۔ أُمُودُهُمْ: اُمور کا متفرق ہونا کہا جاتا ہے "فَشَتَ عَلَيْهِ ضَيْعَتُهُ" اس کی جائیداد کا انتظام بکھر گیا کچھ میں نہیں آتا کہ کس کو سنبھالے۔
فَصْحٌ: فَلَانٌ: خرید و فروخت میں نقصان اٹھانا۔	فُضِحَ (ك) فَضَاحَةً: فَضِحَ هَوْنًا: خوش بیان ہونا۔ مَفْتٌ (فَصِيحٌ)۔	أَفْضَى إِفْشَاءً: الشَّيْءُ: پھیلانا۔ سِرُّهُ لِفَلَانٍ: ظاہر کرنا۔ الرَّجُلُ: بہت جانوروں والا ہونا۔
الْفَصِيحُ وَالْفَصِيحَةُ وَالْفَاصِحَةُ: کمزور عقل۔ تا ما بعد کے لئے ہے۔	الْبَلْبُ: دودھ سے جھاگ اُتار لینا۔ مَفْتٌ (فُضِحَ وَفَصِيحٌ)	تَفَشَّى تَفَشِيًّا: الْمَرْضُ الْقَوْمَ وَبِهِمْ: بیماری پھیلانا۔ تَفَشَّتِ الْقَرْحَةُ: زخم کا چوڑا ہونا۔
فَضْدٌ (ض) فَضْدًا وَفَضَادًا: الْمَرِيضُ: رگ کھولنا۔ لَدُهُ عَطَاءٌ: جا گیر دینا۔	فَصَّحَ: اللَّيْنُ: بے جھاگ ہونا۔	الْفَشَاءُ: موشیوں کی پیداوار اور زیادتی۔
فَضْدٌ: الشَّيْءُ: تھوڑے سے پانی میں بھگوانا۔	أَفْضَحَ: فَصَاحَتْ: بولنا۔ فَضِحَ هَوْنًا: مراد کو ظاہر کرنا۔ عَن كَذَا: خلاصہ کرنا۔	الْفَشِيَانُ: فُشِيٌّ۔
أَفْضَدَتِ: الشَّجَرَةُ: درخت کے کوپتل نکلنا۔	عَنِ الشَّيْءِ: ظاہر کرنا بیان کرنا۔ مِنْ كَذَا: نکل جانا رہائی پانا۔ الْأَمْرُ: واضح ہونا۔	الْفَشْوَةُ: عورت کی خوشبو کی ڈبیا۔
تَفَضَّدَ: الدَّمُ: خون بہنا کہا جاتا ہے "جَاءَ يَتَفَضَّدُ عَرَفًا" آ یا اس حال میں کہ پسینہ بہ رہا تھا۔	الْبَلْبُ: دودھ کا بے جھاگ ہونا۔	الْفَوَاشِي: فَا: مَوْنٌ فَاشِيَةٌ: جِ فَوَاشِيٌّ: الفَوَاشِي: پھیلے ہوئے موشی۔
إِنْفَضَّتِ: الشَّجَرَةُ: درخت کے کوپتل نکلنا۔ انْفَضَّدَ: الدَّمُ: خون بہنا۔	الْبَلْبُ: دودھ کا بے جھاگ ہونا۔	التَّفَشِّيُّ: مَمْسٌ: عِنْدَ أَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ: حرف کا پڑھنا۔
الْفَضْدَةُ وَالْفَضِيذَةُ: بھجور خون کے ساتھ مخلوط کیا ہوا۔	الْبَلْبُ: دودھ کا بے جھاگ ہونا۔	فَصُّ (ض) فَضًا وَفِصَاصٌ: كَذَا مِنْ كَذَا: جدا کرنا۔
الْفَضِيذُ: بَشَرٌ لَگَا يَہْوَا: آنت اور خون ملا کر بھونا ہوا۔	الْبَلْبُ: دودھ کا بے جھاگ ہونا۔	فَصُّ (ض) فَصِيصًا: الْجُوحُ: زخم کا بہنا۔
المِفْضِدُ: بَشَرٌ۔	الْبَلْبُ: دودھ کا بے جھاگ ہونا۔	الْعَرَقِيُّ: بِيضٌ يَكِينًا: الْوَالِدُ: بچے کا آہستہ آہستہ رونا۔ الْبُحْنَدُبُ: مڈی کا آواز نکالنا۔
فَضَعٌ (ف) فَضْعًا: التَّمْرَةُ: دو انگلیوں سے دبا کر چھلکا علیحدہ کرنا۔ عَمَامَتُهُ: عَن زَايِدٍ: سر سے عمامہ اُتارنا۔ الشَّيْءُ: نرم کرنے کے لئے انگلیوں سے ملنا۔	الْبَلْبُ: دودھ کا بے جھاگ ہونا۔	فَضَّصَ: الْخَاتَمُ: انگلی پر گمبیز لگانا۔ بَعِيْبُهُ: گھوڑا۔
وَفَضَّعَ: لَدُهُ بِكَذَا: دینا۔ فَضَّعَ الشَّيْءُ مِنْ كَذَا: نکلنا۔ فَضَّعَ الرُّطْبَةَ: دو انگلیوں سے مل کر چھلکا علیحدہ کرنا۔	الْبَلْبُ: دودھ کا بے جھاگ ہونا۔	أَفْصَحَ: إِلَيْهِ شَيْئًا: مِنْ حَقِيْقَةٍ: حق کا کچھ حصہ دینا۔
إِنْفَضَّعَ: الشَّيْءُ مِنْ كَذَا: نکلنا۔	الْبَلْبُ: دودھ کا بے جھاگ ہونا۔	إِنْفَضَّصَ: مِنْهُ: جدا ہونا۔
إِنْفَضَّعَ: حَقَّهُ مِنْهُ: اپنا کل حق زبردستی لینا۔	الْبَلْبُ: دودھ کا بے جھاگ ہونا۔	الْفَصُّ: تَلْثِيثُ الْفَاءِ: گمبیز (تثنية فاعلی ہے) الْفَصُّ: آنکھ کی سیاہی۔ بَسَنٌ: کاجوا۔
الْفَضْعَاءُ: چوبہیا۔	الْبَلْبُ: دودھ کا بے جھاگ ہونا۔	أَفْصَحَ: إِلَيْهِ شَيْئًا: مِنْ حَقِيْقَةٍ: حق کا کچھ حصہ دینا۔
الْفَضْفُورُ: فَاسْفُورٌ: اس کی دو اقسام ایک کا دن۔	الْبَلْبُ: دودھ کا بے جھاگ ہونا۔	أَفْصَحَ: إِلَيْهِ شَيْئًا: مِنْ حَقِيْقَةٍ: حق کا کچھ حصہ دینا۔

سفید اور دوسری سرخ۔ یہ زندگی کے لئے ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہڈیاں جوڑی جاتی ہیں اور کھاد بنانے کے کام آتا ہے۔

فَصْفَصْ فَصْفَصَةٌ الْكَلَامُ: جلدی بولنا..... الذابئة: فصصه: کھلانا۔

تَفْصَفَصَ الْقَوْمُ عَنْ فُلَانٍ: متفرق ہونا۔

الْفَصْفَصَةُ: ایک قسم کی گھاس ہے جس کو جانور کھاتے ہیں اور جب تک تر ہو اس وقت تک یہ نام ہے فَصْفِصِصِ عوام "فصصہ" کہتے ہیں۔

الْفَصْفِصِصِ: قوی اور مضبوط ارادہ والا۔

الْفِصْعَلُ: بچھو یا بچھو کا بچہ۔ نالائق۔

فَصَّلَ (ض) فَصَّلًا الشَّيْءُ: جدا کرنا۔

علیحدہ کرنا اور اسی سے ہے "فَصَّلَ

الْمُحْضَمَاتِ" یعنی جھگڑوں کا فیصلہ کرنا.....

بَيْنَهُمَا: فاصلہ ہونا الْوَالِدُ عَنِ الرِّضَاعِ: بچے

کا دودھ چھڑانا۔

فَصَّلَ (ن) فَصُولًا الْكُرْمُ: انگور کی تیل

میں دانہ بیٹھنا..... الرَّجُلُ عَنِ الْبَلَدِ: شہر

سے نکل جانا۔

فَصَّلَ الْكَلَامَ: تفصیل کرنا..... الشَّيْءُ: فصل

فصل کرنا۔ تمیز کرنا۔ ٹکڑے کرنا۔

الْقَوْبُ: سینے کے لئے قطع کرنا۔

الْقَصَابُ الشَّاةُ: ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

العقد: ہار کے دوہروں کے درمیان ایک

دوسرے رنگ کا مہرہ ڈالنا۔

فَاصِلٌ شَرِيكَةٌ: جدا کرنا۔

أَفْصَلَ الْمَوْلُودُ دُودَهُ: دودھ چھڑانے کے قابل

ہونا۔

انْفَصَلَ: جدا ہونا..... غَنَهُ: جدا کرنا۔

تَفْصَلُ عَضُو عَضُو كَانَا:

تَفَاصَلَتْ الْأَشْيَاءُ: بعض کا بعض سے جدا

ہونا۔

أَفْصَلَ الْوَالِدُ عَنِ الرِّضَاعِ: بچے سے

دودھ چھڑانا..... السَّخْلَةُ عَنِ مَوْضِعِهَا:

کھجور کے پودہ کو اکھیر کر دوسری جگہ لگانا۔

اسْتَفْصَلَ: تفصیل طلب کرنا۔

الفصل: فصل۔ دو چیزوں کے درمیان روک۔ زمین کے درمیان حد..... مِنَ

الْحَسَدِ: ہر دو ہڈیوں کے ملنے کی جگہ۔ جوڑ

کی جگہ۔ فرع۔ کہا جاتا ہے "الْإِنْسَابُ

أَصْوُنٌ وَفُصُوُنٌ" یعنی فروع..... مِنَ

الْحِطَابِ: کتاب کا ایک مستقل ٹکڑا۔ سال

کے چار حصوں میں سے ایک حصہ اور وہ چار

حصے یہ ہیں۔ بہار، گرمی، خریف، سردی۔ ج

فُصُوُنٌ. الفصل: حق و باطل کے درمیان

فاصلہ۔ قَوْلٌ لِفَصْلٍ: قول حق يَوْمُ الْفَصْلِ:

قیامت کا دن اور فَصْلُ الْخِطَابِ: سے

مراد وہ خطاب ہے جو حق اور باطل کے

درمیان فیصلہ کن ہو اور فصل الخطاب خلیب

کا قول انا بعد بھی ہے۔

الْفَصْلَةُ: فصل کا اسم مرثیہ۔ کھجور کا پودہ جو ایک

جگہ سے دوسری جگہ لگایا گیا ہو۔

السَّفِصِيلُ: شہر پناہ کے سامنے چھوٹی دیوار

ادنیٰ یا گائے کا بچہ جو ماں سے علیحدہ کیا گیا

ہو جی فصال وفضلان وفضلان.

الفَصِيلَةُ: فصیل کا مؤنث۔ ران یا اعضاء

جسم کے گوشت کا ٹکڑا۔ کنبہ۔ ج فصائل کہا

جاتا ہے "جَاءَ وَأَبْفَصِيلِهِمْ" یعنی تمام

آئے۔

الْإِنْفِصَالِي: وہ شخص جو کہ اپنے دین اور ملک

سے الگ ہونے کی طرف میلان رکھتا ہے۔

وہ شخص جس ہدف جماعت سے اختلاف اور

اس سے خارج ہو جاتا ہے۔

الْإِنْفِصَالِيَّةُ: دین و ملک سے الگ ہونا۔

الْأَلْغُ: ہونے کی طرف میلان رکھنا۔

الفَصَالُ: انعام حاصل کرنے کے لئے مدح

کرنے والا۔ سَيْفٌ فَصَالٌ: تلوار کا طبع۔

الفَصَالُ: دودھ چھڑانا۔

الْفَاصِلُ: فا۔ حکم فاصِلٌ: حکم نافذ۔

الْفَاصِلَةُ: مؤنث فاصِل: ہار کے دوہروں

کے درمیان ایک دوسرے رنگ کا مہرہ۔

الْفَاصِلَةُ الصَّغْرَى فِي عِلْمِ الْعَرُوضِ: علم

عروض کی اصطلاح میں تین حروف متحرک

اور چوتھا ساکن جیسے ضَرْبَتْ اور فَاصِلَةٌ

كُنْبُرِي: چار حروف متحرک اور پانچواں

ساکن جیسے ضَرْبَتْكُمْ: اور فاصلہ جمع میں ایسا

ہی ہے جیسے قافیر شعر میں ج فَوَاصِلِ.

الْفَيْضُ: حاکم۔ قاضی حق و باطل کے

درمیان فیصلہ۔ جو چیز امور میں فیصلہ

کرے۔ تلوار کا طبع ج قِصَاصِ. حکم

فیصل: حکم نافذ۔ حکومت فیصل: حکومت

نافذہ۔ ضَرْبَةُ فَيْصَلٍ: وہ مار جو دوسرا اور

مقابل کے درمیان فیصلہ کن ہو۔

الْفَيْصَلِيُّ: حاکم۔ ج۔

الْمَفْصِلُ: جوڑ۔ ج مَفَاصِلِ. المفاصل:

جمع شدہ پتھر۔ دو پہاڑوں کے درمیان کی

زمین جس میں سنگریزے اور ریت وغیرہ جمع

ہو گئے ہوں جس کا پانی صاف اور ٹھنڈا ہوتا

ہے ذاء المفاصل. وَجَعَ مَفَاصِلُ: ایک

بیماری جس میں جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔

المفصل: زبان۔

المفصال: جس کی عادت ہی فیصلہ کی ہو۔

الْمَفْصَلَةُ: فِي اصطلاح التجارین:

دروازے وغیرہ کا قبضہ۔

الْفَاصِلُوتِيَّةُ أَوْ الْفُصُولِيَّةُ: لوبیا زرعی

سبزی۔ پہلے پہلے امریکہ میں کاشت ہوئی

اب براعظم ایشیا میں بھی پائی جاتی ہے۔

فَصَمَ (ض) فَصْمًا. الذَّمْلَجُ وَنَحْوُهُ:

بازو بند وغیرہ کو بغیر جدا کئے ہوئے توڑنا

..... الشَّيْءُ: کاٹنا۔

فَصِمَ. الْبَيْتُ: مکان کا گرنے۔

أَفْصَمَ عَنْهُ الْمَطَرُ أَوْ الْحُمَى: بارش یا

بخار کا منقطع ہونا۔

تَفْصَمَ وَانْفَصَمَ: منقطع ہونا۔ بغیر جدائی کے

ٹوٹنا۔ پھٹنا۔

الْقَصِيمُ وَالْأَقْصَمُ: ٹوٹا ہوا۔ کٹا ہوا۔ پھٹا

ہوا۔

فَقَصَى يَفْصِي فَصِيًا. الشَّيْءُ مِنَ الشَّيْءِ

وعنه: جدا کرنا۔ زائل کرنا۔

فَقَصَى تَفْصِيَةً. اللُّحْمُ مِنَ الْعَظْمِ أَوْ عَنِ

العظیم: گوشت کو بڑی سے علیحدہ کرنا۔ جدا کرنا۔ چھڑانا۔

فَاضَاةٌ مَفَاضَاةٌ: جدا ہونا۔

إِفْضَى إِفْضَاءً: خیر یا شر سے نکل جانا۔
أَفْضَى عَنَّا الْمَطَرُ: منتقل ہونا..... الصائِد:
شکاری کے جال میں کچھ نہ پھنستا۔

تَفَضَّى تَفَضِيًّا وَانْفَضَى انْفِضَاءً مِنْ أَوْعِنِ السَّيْثَةِ وَغَيْرِهَا: رہائی پانا۔ کہا جاتا ہے
"تَفَضَّى مِنَ الدَّيُونِ" قرض سے نجات پائی
..... الرَّجُلُ مِنَ الرَّجْلِ وَغَنَى: جدا ہونا۔
تَفَضَّى الشَّيْءُ: پورالے لینا۔

الْفَضَى: خشک آگور کا دانہ واحد (فَضَاةٌ)

الْفَضِيَّةُ وَالْفَضِيَّةُ: خیر سے محرومی شر سے
رہائی۔ الْفَضِيَّةُ مَا بَيْنَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ:
اعتدال موسم۔ کہا جاتا ہے "يَوْمٌ فَضِيَّةٌ
وَفَضِيَّةٌ وَيَوْمٌ مُفْضٍ وَلَيْلَةٌ فَضِيَّةٌ وَفَضِيَّةٌ
وَلَيْلَةٌ فَضِيَّةٌ" معتدل دن رات نہ گرم نہ
سرد۔

فَضَّ (ن) فَضًّا الشَّيْءُ: توڑ کر کھلے
کھلے کرنا۔ فَضَّ خَتَمَ الْكِتَابِ وَالخَمَّ
عَنِ الْكِتَابِ: مہر توڑنا..... اللُّوْلُؤَةُ: موتی
باندھنا..... الْقَوْمُ: قوم کو متفرق کرنا۔ تم کہتے
ہو "فَضَّ اللَّهُ جَمْعَهُمْ" اللہ ان کی جمعیت کو
متفرق کر دے۔ وَفَضَّضْتُ حَلْفَةَ الْقَوْمِ:
میں نے قوم کے حلقہ کو توڑ دیا..... الدُّمُوعُ:
آنسو بہانا۔

..... الشَّيْءُ عَلَى الْقَوْمِ: تقسیم کرنا۔ مَا
بَيْنَهُمَا: کاٹ دینا..... اللَّهُ فَاهٌ: دانتوں کو گرا
دینا اور اس سے ہے "لَا فَضَّ فُوكَ" اس
شخص کے لئے جو بہترین گفتگو کرے دُعا ہے
کہ تمہارے دانت نہ گرائے جائیں۔

فَضَّضَ الشَّيْءُ: کسی چیز پر چاندی کا طبع
کرنا۔ چاندی کا جھول چڑھانا۔

أَفْضَ: العطاء: بہت دینا۔

انْفَضَّ: ٹوٹنا۔ انْفَضَّتِ الدُّمُوعُ: آنسو بہنا
(..... وَتَفَضَّضَ) متفرق ہونا۔

انْفَضَّ: الماء: پانی آہستہ آہستہ گرانے۔

الْفَضُّ: مہرے بھرے ہوئے لوگ کہا جاتا
ہے "الْحَمْدُ لِلَّهِ فَضُّ" یعنی شہر میں متفرق
لوگ ہیں وَتَمَرَّ فَضُّ: متفرق کھجوریں۔

الْفَضَّاضُ وَالْفَضَّاضُ وَالْفَضَّاضَةُ:
ریزے کھڑے کہا جاتا ہے "طَارُوا
فَضَّاضًا" متفرق ہو کر اڑ گئے۔

الْفَضِيضُ وَالْفَضِيضُ: نہاتے وقت پانی جو
ادھر ادھر بکھر جائے۔ ہر متفرق و منتشر چیز کہا
جاتا ہے "خَرَجَ فَضِيضٌ مِنَ النَّاسِ" متفرق
فرتے نکلے الْفَضِيضُ: ٹوٹا ہوا خوشگوار پانی
یا بہتا ہوا پانی۔

الْفَيْضَةُ: چاندی (..... وَالْفَيْضَةُ زَيْنُ
جہاں پتھر ایک دوسرے کے اوپر بکھرے
ہوئے ہوں۔

الْفَاضَةُ: مَوْتٌ فَاضٌ: مہمیت نہ فَوَاضٌ.
المِفْضَاضُ وَالْمِفْضُ وَالْمِفْضَةُ: بیگا۔
موگری۔

الْفَضْفَضَةُ: کشادگی۔

الْفَضْفَاضُ: کشادہ۔

تَفَضَّجَ الرَّجُلُ عَرَقًا وَبِالْعَرَقِ: پال کی
جزوں میں پسینہ آنا اور تر نہ ہونا..... الشَّيْءُ:
وسیع ہونا..... جَسَدُهُ بِالشَّخْمِ: موٹا پے
سے پھٹ پڑنا۔

انْفَضَّجَ الرَّجُلُ عَرَقًا وَبِالْعَرَقِ: بمعنی
تَفَضَّجَ..... الامْرُؤُ: ڈھیلا اور کمزور ہونا.....

الْبَدْنُ: بدن کا بہت موٹا ہونا..... الْقَرْحَةُ:
زخم کا کشادہ ہونا..... الْاَلْفُوقُ: ظاہر ہونا۔

الْفَضِيحُ: پسینہ۔

فَضَّحَهُ (ف) فَضَّحًا: برائیاں ظاہر کرنا۔

فَضَّحَ الْمُعْتَمَى: معمر حل کرنا..... الْقَمْرُ
السُّجُومُ: چاند کا ستاروں پر غالب آنا.....

الصُّبْحُ: صبح طلوع ہونا..... الصُّبْحُ فَلَاتًا:
روشنی کا غالب ہونا۔

فَضَّجَ (س) فَضَّحًا: تھوڑا سفید ہونا۔
صفت (أَفْضَحَ) مَوْتٌ فَضَّحَاءٌ فَضَّجَ:
فَضَّحَ وَالْفَضَّحُ: صبح طلوع ہونا۔

أَفْضَحَ النَّخْلُ: درخت خرما کا سرخ یا زرد

پھل والا ہونا۔

فَاضَحَهُ وَتَفَاضَحَا: ایک دوسرے کو رسوا
کرنا۔ ایک دوسرے کی برائیاں کو ظاہر
کرنا۔

إِفْضَحَ: الامرُ: مشہور ہونا..... السَّرْجُلُ:
رسوا ہونا۔ برائیاں ظاہر ہونا۔

الفاضح: فاح۔ صبح۔

الفضاح: صیغہ مبالغہ۔

الْفَضُوحُ وَالْفَضَّاحَةُ وَالْفَضُوحَةُ
وَالْفَضَّاحُ: رسوائی برائیوں کا ظاہر ہونا۔
الْفَضُوحُ: رسوا کرنے والا۔ رسوا شدہ۔

الْفَضِيحُ: مال یا مویشی میں بدانتظامی۔

الْفَضِيحَةُ: مَوْتٌ فَضِيحٌ: عیب۔ رسوائی
بج فاضح۔

المَفْضُوحَةُ: سبب رسوائی بج مَفْضُوحٌ.
فَضَّحَ (ف) فَضَّحًا: الشَّيْءُ: کھولنے کی چیز کو
توڑنا..... الرَّاسُ: سر چکھنا..... الْعَيْنُ: آنکھ
پھوڑنا۔

أَفْضَحَ: المَفْضُودُ: آگور کے گھجے کا نچوڑے
جانے کے قابل ہونا۔

انْفَضَّحَ: ٹوٹنا۔ کشادہ ہونا۔ انْفَضَّحَتْ
الْقَرْحَةُ: زخم کا کشادہ ہونا اور چڑھانا.....
زَيْدٌ: بہت رونا..... الدلو: ڈول کا چمکانا۔

انْفَضَّحَ: السُّورُ: کچی کھجور کی نیبڈ بنانا۔
فَضَّحَ: الماء: پانی کی چمک۔

الْفَضُوحُ: شراب جو پینے والے کو مست بنا
دے۔

الْفَضِيحُ: شيرة آگور۔ کھجور کی شراب۔ بہت
پانی ملا ہو اور دودھ۔

فَضَّضَ فَضَّضَةً: التَّوْبُ او العَيْشُ:
کشادہ ہونا وَفَضَّضَهُ: کشادہ کرنا۔

الْقَضْفَاضُ: کشادہ کپڑا۔ خوش عیش۔
فِيضٌ: اَرْضٌ فَضْفَاضٌ: زمین جس پر
بارش کا پانی بہت جمع ہو۔ دِرْعٌ (فَضْفَاضَةٌ
وَفَضْفَاضَةٌ) کشادہ زرہ۔ سَحَابَةٌ

فَضْفَاضَةٌ وَفَضْفَاضَةٌ: بہت پانی والی بدلی۔
جَارِيَةٌ فَضْفَاضَةٌ: بڑے گوشت طولی الجسم

لڑکی۔

فَضْل (ن) وَفَضِيل (س) فَضْلًا بَاقِي
رہنا۔ زیادہ ہونا۔ فَضْلُهُ: فضل میں غالب
ہونا کہا جاتا ہے "فَضْلُ فُلَانٍ عَلٰی غَيْرِهِ"
جبکہ فضل میں غالب ہو جائے۔

فَضِيل وَفَضْل (ک) فَضْلًا: صاحب فضل
ہونا۔ صاحب فضیلت ہونا۔

فَضْلُهُ عَلٰی غَيْرِهِ: فضل کا حکم لگانا۔ ترجیح
دینا (فاضلہ فیضالا ومفاضلہ) فضل میں نفع
کرنا۔ فاضل بین الشیخین: دو چیزوں کے
درمیان فضل کا مقابلہ کرنا۔

أَفْضَلُ عَلَیْهِ: بڑھنا۔ بھلائی کرنا۔ مہربانی
کرنا۔ أَفْضَلُ عَلَیْهِ فِی الْحَسَبِ: حسب
میں بڑھ جانا..... عَلَیْهِ: زیادہ ہونا۔ کہا جاتا
ہے "زَأَيْتُ صَفْهَمُ قَدْ أَفْضَلُ عَلٰی صَفِينَا"
ان کی صف کو دیکھا کہ ہماری صف سے بڑھ
گئی ہے (.....) وَاسْتَفْضَلُ مِنَ الشَّيْءِ: بقیہ
چھوڑ دینا۔

تَفَضَّلَ عَلَیْهِ: مہربانی کرنا۔ فضل کا دعویٰ
کرنا۔ تَفَضَّلَ الرَّجُلُ: شبِ خوابی کا لباس
پہنایا۔ کام کاج کے لئے لباس پہننا۔
تَفَاضَلُ الرَّجُلَانِ: ایک کا دوسرے پر فضل کا
دعویٰ کرنا۔

اسْتَفْضَلَ مِنَ الشَّيْءِ: بقیہ چھوڑنا۔

الفَضْلُ: بھص۔ احسان۔ زیادتی۔ بقیہ کہا
جاتا ہے "فُلَانٌ لَا يَمْلِكُ دِرْهَمًا فَضْلًا
عَنِ دِينَارٍ" فلاں درہم کا مالک نہیں ہے
جانیکہ دینار۔ گویا یوں کہا گیا کہ لَا يَمْلِكُ
دِرْهَمًا فَكَيْفَ يَمْلِكُ دِينَارًا: یعنی درہم کا
مالک نہیں تو دینار کا مالک کیسے ہو سکتا ہے اور
کہا جاتا ہے "فَنِي يَدِهِ فَضْلُ الزَّمَانِ" اس
کے ہاتھ میں لگام کا کنارہ ہے۔ جِ فَضُولُ
الفَضُولُ: حاجت سے زیادہ مال فَضُولُ
البدن: جو طبعی طور پر بدن کے منافذ سے نکلے
جیسے پینہ۔ تھوک۔

الفَضْلَةُ: فَضْلُ: کا اسمِ مرثہ۔ بقیہ۔ شراب
جِ فَضَالَتٍ وَفَضَالٍ.

الفَضْلَةُ وَالفَضْلُ وَالفَضَالُ: وہ کپڑا جو کام
کے وقت یا نیند کے وقت پہنیں یا جس کو گھر
میں استعمال کیا جائے۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ
فَضْلٌ" یعنی ایک کپڑا اپنے ہوئے ہے اسی
طرح "امْرَأَةٌ فَضْلٌ".

الفَضَالَةُ: بقیہ۔ جِ فَضَالَاتٍ.
الفَضَالُ: بہت فضل والا۔

الفَضِيلَةُ: خوبی۔ زیادتی۔ فضل میں بلند
مرتبہ فَضَائِلُ.

الفَاضِلُ: فا۔ صاحب فضل۔ صاحب فضیلت
جِ فَاضِلُونَ وَفَضَلَاءُ: مؤنث فَاضِلَةٌ جِ
فَاضِلَاتٍ وَفَوَاضِلُ.

الفَاضِلَةُ: فضل میں بلند مرتبہ۔ بہت
فَوَاضِلُ الْمَالِ: مال کا نفع۔

الفَضُولُ: بہت فضل کرنے والا۔
الفَضُولُ: قیمت میں جو تقسیم سے بچ رہے۔
الفَضُولِيُّ: لائسنی چیزوں میں مشغول ہونے
والا۔

الفَضِيلُ: صاحب فضل۔ صاحب فضیلت جِ
فَضَلَاءُ.

الْأَفْضَلُ: فضل میں بڑھا ہوا جِ الْأَفْضَلُونَ
وَأَفْضَالُ: مؤنث أَفْضَالِي جِ فَضَالِيَاتٍ.
فَضْلٌ.

المِفْضَلُ وَالمُفْضَلُ: بہت فضل والا
المُفْضَلُ: جس کے متعلق فضل کا حکم لگایا گیا
ہو۔

المِفْضَلُ وَالمِفْضَلَةُ: کپڑا جو کام کے وقت
یا سوتے وقت پہنا جائے یا گھر میں پہننے کا
کپڑا جِ مَفَاضِلُ.

المِفْضَالُ: بہت فضل والا۔ مؤنث مِفْضَالَةٌ.
فَضًّا يَفْضُو فَضَاءً أَوْ فَضْوًا الْمَكَانُ: جگہ۔

کشاہدہ ہونا۔ خالی ہونا صفتِ فِاضٍ (.....)
فَضْوًا الشَّجَرُ بِالْمَكَانِ: درخت بہت
ہونا۔

أَفْضَى إِفْضَاءً: المكانُ: جگہ وسیع ہونا۔

..... الْمَكَانُ: جگہ وسیع کرنا..... إِلَيْهِ: پہننا۔
..... إِلَيْهِ بَسْرَهُ: بھید کو جتانا..... بِهِ إِلَيَّ كَذَا.

: پہننا..... بِفُلَانٍ: کشاہدہ میدان کی طرف
لے جانا..... الرَّجُلُ: محتاج ہونا۔

الفَاضِي: فا کشاہدہ کہا جاتا ہے "مَقَامٌ فَاضٍ"
کشاہدہ مقام۔ کھلا ہوا۔ خالی۔

الفَضَاءُ: وسیع زمین۔ میدان جِ أَفْضَاءُ: کہا
جاتا ہے "مَكَانٌ فَضَاءٌ" یعنی کشاہدہ جگہ۔

الفِضَاءُ: زمین پر جاری پانی۔ بسا اوقات
پاخانہ کے لئے کنایہ کرتے ہیں۔

الفَضَاءُ: خشک آگور کا دانہ۔ سَهْمٌ فَضًّا: اکیلا
تیر۔ طَعَامٌ فَضًّا: ملاحلا کھانا کہا جاتا ہے "إِنَّ
أَمْرَهُمْ فَضًّا عَلَيْنَهُمْ" یعنی ان کا کوئی امیر
نہیں۔

فَطَاءُ (ف) فَطًّا: تُوڑنا۔ فَطًّا بِهِ الْأَرْضُ:
زمین پر پلک دینا..... فَطًّا بِهِ عَنْ رَبِّهِ:
رائے سے ہٹا دینا..... الْقَوْمُ: غیر پسندیدہ

چیز لانا..... فَطًّا الْمَرْأَةُ: جماع کرنا۔ فَطَّاتٍ
الْقَدْرُ بِزَيْدِهَا: ہانڈی کا جھاگ لانا۔

فَطِيئٌ (س) فَطًّا: زحمتی ہوئی پیٹھ اور
اُبھرے ہوئے سینہ والا ہونا۔ صفتِ أَفْطَا
مؤنثِ فَطَّاءِ جِ فَطَّاءُ.

فَاطًا مَفَاطَاةً بِهِ الْأَرْضُ: زمین پر پلک
دینا۔

إِفْطًا إِفْطَاءً: فرائض حال ہونا۔ بدخلق ہونا۔
..... فَلَائِنَا: کھلانا۔ بہت جماع کرنا۔

تَفَاطًا: سینہ اُبھارنا اور پیٹھ دھنسانا۔
..... غَنَهُ: پیچھے ہٹنا..... عَنِ الْقَوْمِ: بھگت

کھانا اور حملہ کے بعد لوٹنا۔
الفَطَّاءُ: سینہ کا اُبھار اور پیٹھ کا دھنسا۔

فَطَّحَ (ف) فَطَّحًا وَفَطَّحَ: الشَّيْءُ: چوڑا
کرنا۔

..... الْغَوْدُ: لکڑی کو چھیلنا اور چوڑا کرنا۔
فَطَّحَهُ بِالْعَصَا: اللٹھی سے مارنا۔

فَطَّحَ (س) فَطَّحًا زَائِدًا أَوْ انْفَهَ: سر یا
ناک چوڑی ہونا۔ صفتِ أَفْطَحَ الْأَفْطَحُ:
گرگٹ۔

زَائِسٌ مُفْطَّحٌ: چوڑا سر۔
الْمِفْطَحُ: بڑا سیلاب جَمَلٌ فَطَّحِلٌ: مونا

..... الْمَكَانُ: جگہ وسیع کرنا..... إِلَيْهِ: پہننا۔
..... إِلَيْهِ بَسْرَهُ: بھید کو جتانا..... بِهِ إِلَيَّ كَذَا.

<p>زمانہ۔ الفطیم: دودھ چھڑایا ہوا۔ ج فطم۔ نَاقَةُ (فَاطِمَة) وَأُثْمُنَى جَسَّ كَابِجٍ دودھ سے چھڑا دیا گیا ہو۔ فَاطِمَةُ الذَّهْرَا رضی اللہ عنہا: نبی کریم ﷺ کی صاحبزادی کا اسم گرامی۔</p>	<p>خیر کا گندھا ہوا آنا۔ خُبِرَ فَطِيرٌ: تازہ روٹی۔ الفطير: تازہ دودھ۔ عِنْدَ الفَطِيرِ: یہودیوں کی ایک عید سیف فطار: گھل تلوار۔ الفطاری: بے نفع مرد۔ الأفطور: ناک اور چہرہ میں پھین ج اقاطر۔ السفطورة: متفرق گھاس۔ موسم بہار کی پہلی گھاس ج نفاطير۔ الفطوي: بے خیر کی روٹی۔ الفاطر: فاجس کے دانت نکل آئے ہوں۔ فطس (س) فطسا: چھٹی ناک والا ہونا۔ صفت فطس: اور چھٹی ناک کو بھی فطس کہتے ہیں۔ مؤنث فطساء۔ ج فطس۔ فطس (ض) فطوسا: مرنا۔ صفت فاطس (..... فطسا) السخديد: لوہے کو چوڑا کرنا ہ بالکلیۃ: رو در رو کہنا۔ الفطس: مہس۔ حب الاس: واحد فطسة۔ الفطسة: مہرہ جس کا تعویذ بنایا جائے۔ الفطسة: ناک کا چینا پن۔ الفطیس: بڑا اتھوڑا ج فطاطیس۔ الفطیسة: سور کی تھوٹھی۔ انسان کا ہونٹ۔ درندہ کا سوٹ۔</p>	<p>اوتج فطاجل۔ وعند المولدين فطاجل العلماء: بڑے علماء اور مومن اليفطجل: بہت پرانا زمانہ اور لوگوں نے کہا کہ وہ زمانہ جس میں آدمی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ فطذ (ن) فطذا: باز رکھنا۔ منع کرنا۔ فطر (ن ش) فطرا۔ الشئ: بھاڑنا الامر: پیدا کرنا۔ شروع کرنا العجين: خمیر ہونے سے پہلے روٹی پکاتا۔ فطر ناب البعير: اونٹ کے دانت ظاہر ہونا الرجل الشاة: انگلیوں کے اطراف سے دوہنا۔ فطر وفطرا وفطورا الصائم: روزہ دار کا افطار کرنا۔ افطر الصائم: کھانا اور پینا۔ افطار کا وقت قریب ہونا۔ صفت مفطير ج مفاطير کہا جاتا ہے "قوم مفاطير وفطر الصائم: افطار کرنا۔ ناشتہ دینا۔ فطر الشئ: بھاڑنا۔ تفطر وانفطر: بچھنا۔ تفطرت وانفطرت الأرض بالنبات: زمین کا پھینا اور نباتات کا لگانا القضيبي: شاخ کے پتوں کا لگانا شروع ہونا۔ افطر الامر: ایجاد کرنا۔ الفطر: مہس۔ پھین۔ ج فطور۔ الفطر: مہس۔ انگور جب کہ اس کا سوا ظاہر ہو الفطر وعيد الفطر: ماہ رمضان المبارک کے بعد عید۔ الفطر: نباتات جو زمین سے اُگے۔ سانپ کی چھتری کی ایک قسم۔ واحد فطرة۔ الفطرة: وہ صفت کہ ہر موجود اپنی ابتدائی پیدائش میں اس پر ہو۔ طبعی حالت۔ دین۔ سنت۔ طریقہ۔ پیدائش۔ ج فطر۔ الفطور والفطوري: افطاری۔ ناشتہ۔ الفطير: ہر وہ چیز جو وقت سے پہلے جلدی کی جائے کہا جاتا ہے "هَذَا رَائِي فَطِيرٌ" یعنی بدبوی بے گچھے بوجھے "عجين فطير" بے</p>
<p>فطن (ن) وفطن (ك) وفطن (س) فطنا وفطنا وفطنا وفطنا وفطنا وفطانة وفطانة وفطونة وفطانية وفطانية. لئلا مبر وبه واليه: ادراک کرنا۔ سمجھنا۔ ماہر ہونا۔ فطنه. بالامر وله واليه: سمجھانا۔ فطن التلميذ: شاگرد کو سمجھ دار بنانا۔ فطنة سفانة بالكلام: سمجھانے کے لئے کلام کو لوٹانا۔ تفطن. لگلاجه: سمجھنا کہا جاتا ہے "تفطن لسا أقول لك" جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں اس کو سمجھو۔ الفطنة: مہارت۔ سمجھ۔ ج فطن۔ الفاطن والفقطن والفقطن والفقطن والفقطن والفقطن: زیرک۔ سمجھ دار۔ ج فطن وفطن۔ الفطونة: زیرک سمجھ دار۔ فطة (س) فطها: کشادہ پشت ہونا۔ صفت أفطة: مؤنث فطها ج فطة۔ فطاً فطو فطوا. الذابة: جانور کو تیز باکنا۔ فط (س) فطاطة وفطاطا وفطاطا: سخت کلام اور بدخلق ہونا۔ فط (ن) فطاً وافطط: جنگوں میں اوجھ کا پانی نچوڑنا اور پینا اور یہ اس طریقہ پر کہ اونٹوں کو سیراب کر دیتے ہیں اور پھر ان کے منہ کو باندھ دیتے ہیں تاکہ جنگلی نہ کرنے پائیں۔ پھر جب پیاس لگتی ہے تو پیٹ چاک کر کے اوجھ کو نچوڑتے ہیں اور پیتے ہیں۔</p>	<p>فطس (س) فطسا: چھٹی ناک والا ہونا۔ صفت فطس: اور چھٹی ناک کو بھی فطس کہتے ہیں۔ مؤنث فطساء۔ ج فطس۔ فطس (ض) فطوسا: مرنا۔ صفت فاطس (..... فطسا) السخديد: لوہے کو چوڑا کرنا ہ بالکلیۃ: رو در رو کہنا۔ الفطس: مہس۔ حب الاس: واحد فطسة۔ الفطسة: مہرہ جس کا تعویذ بنایا جائے۔ الفطسة: ناک کا چینا پن۔ الفطیس: بڑا اتھوڑا ج فطاطیس۔ الفطیسة: سور کی تھوٹھی۔ انسان کا ہونٹ۔ درندہ کا سوٹ۔ فطم (ض) فطما. التحيل: رشی کا ثنا۔ السود: بچے سے دودھ چھڑانا ہ عن العادة: روکنا۔ منع کرنا۔ چھڑانا کہا جاتا ہے "لا فطمك عما أنت عليه" یعنی تمہاری امید کو منقطع کر دوں گا۔ افطم. الرضيع: دودھ پیتے بچے کا دودھ چھڑانے کے وقت پر پینچنا۔ دودھ چھڑانے کے قریب ہونا۔ انفطم: دودھ چھیننا عنہ: رکنا۔ باز رہنا۔ تفطام. القوم: ایسے جانوروں کے بچوں والا ہونا جو دودھ چھڑانے کے بعد اپنی ماں کے ساتھ لپٹے رہیں۔ الفطام: دودھ چھڑانا۔ دودھ چھڑانے کا</p>	<p>فطر (ن ش) فطرا۔ الشئ: بھاڑنا الامر: پیدا کرنا۔ شروع کرنا العجين: خمیر ہونے سے پہلے روٹی پکاتا۔ فطر ناب البعير: اونٹ کے دانت ظاہر ہونا الرجل الشاة: انگلیوں کے اطراف سے دوہنا۔ فطر وفطرا وفطورا الصائم: روزہ دار کا افطار کرنا۔ افطر الصائم: کھانا اور پینا۔ افطار کا وقت قریب ہونا۔ صفت مفطير ج مفاطير کہا جاتا ہے "قوم مفاطير وفطر الصائم: افطار کرنا۔ ناشتہ دینا۔ فطر الشئ: بھاڑنا۔ تفطر وانفطر: بچھنا۔ تفطرت وانفطرت الأرض بالنبات: زمین کا پھینا اور نباتات کا لگانا القضيبي: شاخ کے پتوں کا لگانا شروع ہونا۔ افطر الامر: ایجاد کرنا۔ الفطر: مہس۔ پھین۔ ج فطور۔ الفطر: مہس۔ انگور جب کہ اس کا سوا ظاہر ہو الفطر وعيد الفطر: ماہ رمضان المبارک کے بعد عید۔ الفطر: نباتات جو زمین سے اُگے۔ سانپ کی چھتری کی ایک قسم۔ واحد فطرة۔ الفطرة: وہ صفت کہ ہر موجود اپنی ابتدائی پیدائش میں اس پر ہو۔ طبعی حالت۔ دین۔ سنت۔ طریقہ۔ پیدائش۔ ج فطر۔ الفطور والفطوري: افطاری۔ ناشتہ۔ الفطير: ہر وہ چیز جو وقت سے پہلے جلدی کی جائے کہا جاتا ہے "هَذَا رَائِي فَطِيرٌ" یعنی بدبوی بے گچھے بوجھے "عجين فطير" بے</p>
<p>فطن (ن) وفطن (ك) وفطن (س) فطنا وفطنا وفطنا وفطنا وفطنا وفطانة وفطانة وفطونة وفطانية وفطانية. لئلا مبر وبه واليه: ادراک کرنا۔ سمجھنا۔ ماہر ہونا۔ فطنه. بالامر وله واليه: سمجھانا۔ فطن التلميذ: شاگرد کو سمجھ دار بنانا۔ فطنة سفانة بالكلام: سمجھانے کے لئے کلام کو لوٹانا۔ تفطن. لگلاجه: سمجھنا کہا جاتا ہے "تفطن لسا أقول لك" جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں اس کو سمجھو۔ الفطنة: مہارت۔ سمجھ۔ ج فطن۔ الفاطن والفقطن والفقطن والفقطن والفقطن والفقطن: زیرک۔ سمجھ دار۔ ج فطن وفطن۔ الفطونة: زیرک سمجھ دار۔ فطة (س) فطها: کشادہ پشت ہونا۔ صفت أفطة: مؤنث فطها ج فطة۔ فطاً فطو فطوا. الذابة: جانور کو تیز باکنا۔ فط (س) فطاطة وفطاطا وفطاطا: سخت کلام اور بدخلق ہونا۔ فط (ن) فطاً وافطط: جنگوں میں اوجھ کا پانی نچوڑنا اور پینا اور یہ اس طریقہ پر کہ اونٹوں کو سیراب کر دیتے ہیں اور پھر ان کے منہ کو باندھ دیتے ہیں تاکہ جنگلی نہ کرنے پائیں۔ پھر جب پیاس لگتی ہے تو پیٹ چاک کر کے اوجھ کو نچوڑتے ہیں اور پیتے ہیں۔</p>	<p>فطس (س) فطسا: چھٹی ناک والا ہونا۔ صفت فطس: اور چھٹی ناک کو بھی فطس کہتے ہیں۔ مؤنث فطساء۔ ج فطس۔ فطس (ض) فطوسا: مرنا۔ صفت فاطس (..... فطسا) السخديد: لوہے کو چوڑا کرنا ہ بالکلیۃ: رو در رو کہنا۔ الفطس: مہس۔ حب الاس: واحد فطسة۔ الفطسة: مہرہ جس کا تعویذ بنایا جائے۔ الفطسة: ناک کا چینا پن۔ الفطیس: بڑا اتھوڑا ج فطاطیس۔ الفطیسة: سور کی تھوٹھی۔ انسان کا ہونٹ۔ درندہ کا سوٹ۔ فطم (ض) فطما. التحيل: رشی کا ثنا۔ السود: بچے سے دودھ چھڑانا ہ عن العادة: روکنا۔ منع کرنا۔ چھڑانا کہا جاتا ہے "لا فطمك عما أنت عليه" یعنی تمہاری امید کو منقطع کر دوں گا۔ افطم. الرضيع: دودھ پیتے بچے کا دودھ چھڑانے کے وقت پر پینچنا۔ دودھ چھڑانے کے قریب ہونا۔ انفطم: دودھ چھیننا عنہ: رکنا۔ باز رہنا۔ تفطام. القوم: ایسے جانوروں کے بچوں والا ہونا جو دودھ چھڑانے کے بعد اپنی ماں کے ساتھ لپٹے رہیں۔ الفطام: دودھ چھڑانا۔ دودھ چھڑانے کا</p>	<p>فطر (ن ش) فطرا۔ الشئ: بھاڑنا الامر: پیدا کرنا۔ شروع کرنا العجين: خمیر ہونے سے پہلے روٹی پکاتا۔ فطر ناب البعير: اونٹ کے دانت ظاہر ہونا الرجل الشاة: انگلیوں کے اطراف سے دوہنا۔ فطر وفطرا وفطورا الصائم: روزہ دار کا افطار کرنا۔ افطر الصائم: کھانا اور پینا۔ افطار کا وقت قریب ہونا۔ صفت مفطير ج مفاطير کہا جاتا ہے "قوم مفاطير وفطر الصائم: افطار کرنا۔ ناشتہ دینا۔ فطر الشئ: بھاڑنا۔ تفطر وانفطر: بچھنا۔ تفطرت وانفطرت الأرض بالنبات: زمین کا پھینا اور نباتات کا لگانا القضيبي: شاخ کے پتوں کا لگانا شروع ہونا۔ افطر الامر: ایجاد کرنا۔ الفطر: مہس۔ پھین۔ ج فطور۔ الفطر: مہس۔ انگور جب کہ اس کا سوا ظاہر ہو الفطر وعيد الفطر: ماہ رمضان المبارک کے بعد عید۔ الفطر: نباتات جو زمین سے اُگے۔ سانپ کی چھتری کی ایک قسم۔ واحد فطرة۔ الفطرة: وہ صفت کہ ہر موجود اپنی ابتدائی پیدائش میں اس پر ہو۔ طبعی حالت۔ دین۔ سنت۔ طریقہ۔ پیدائش۔ ج فطر۔ الفطور والفطوري: افطاری۔ ناشتہ۔ الفطير: ہر وہ چیز جو وقت سے پہلے جلدی کی جائے کہا جاتا ہے "هَذَا رَائِي فَطِيرٌ" یعنی بدبوی بے گچھے بوجھے "عجين فطير" بے</p>

<p>الفط: مص۔ بہت بدخلق اور سخت کلام۔ ج الفاظ: اوجھ کا پانی جو جنگلوں میں ٹھوڑ کر بیا جاتا ہے۔ ج فظاظ و فظوظ۔ الفط: بُری شکل و صورت کا ایک آبی درندہ اور اس کے مذکر کے اوپر کے جڑے میں دو لبے لیے دانت ہوتے ہیں۔ الفضاطة: کڑا۔ فَطَعَ (ک) فَطَاعَةُ الْأَمْرِ: قباحت بڑھ جاتا۔ قباحت میں حد سے گزر جاتا۔ صفت فَطَعَ وَفَطِيعٌ۔ فَطَعَ (س) فَطَعًا الْإِنَاءُ: برتن کا بھر جانا۔ فَلَانٌ بِالْأَمْرِ وَبِئْسَ الْأَمْرُ: کام کو بڑا سمجھنا اور اس کے انجام دینے کا اعتماد نہ کرنا۔ أَفْطَعَ الْأَمْرُ: قباحت بڑھ جانا۔ اِفْطَعَهُ: امر تبیخ میں ڈالنا..... اَفْطَعَ الْأَمْرُ: تبیح پانا۔ أَفْطَعَ: امر تبیح نازل ہونا۔ فَطَعَ الْأَمْرُ: تبیح بنانا۔ مبالغہ کرنا۔ تَفَطَّعَ وَاسْتَفْطَعَ الْأَمْرُ: تبیح پانا۔ الْفَطِيعُ: خوشگوار پانی یا آب زلال۔ أَفْطَى الْفِطَاءُ: الرُّجُلُ: بدخلق ہونا۔ الْفَطِيُّ: بچہ دانی۔ فَفَعَّعَ فَعْفَعَةً بِالْغَنَمِ: بکریوں کو فتح فتح کہہ کے ہانکنا اور اس آواز کو فَعْفَعٌ یا فَعْفَاعٌ کہتے ہیں۔ تَفَفَّعَ الرَّجُلُ فِي أَمْرِهِ: جلدی کرنا۔ فَعَلَ (ف) فَعَلًا: کرنا۔ بنانا اور اسم اس سے الفِعل ہے۔ فَعَّلَ الْبَيْتَ الشُّعْرِيَّ: تَفْطِيعٌ کرنا اور وزن تَفْطِيعٌ کا ایسے اجزاء سے ہے جس کا مادہ ف ع ل ہے۔ اِنْفَعَلَ: ہو جانا۔ متاثر ہونا۔ اِنْفَعَلَ الشَّيْءُ: اِيْجَادٌ کرنا..... اَلْحَطُّ: جعل سازی کرنا۔ کہا جاتا ہے "اِنْفَعَلَ عَلَيْهِ زَوْرًا وَكَذَّبًا" اس نے اس پر جھوٹ و بہتان باندھا۔ الفِعل: کام۔ ج فِعال و اَفْعال ج اَفْعِيلُ۔ الافْعِيلُ وَالْفَاعِيلُ: عِنْدَ الْعَرَبِ وَضِيْعِيْنِ:</p>	<p>علم عروض کی اصطلاح میں اشعار کے اوزان اور وہ چار ہیں فَعُوْلُنْ مَفَاعِيلُنْ مَفَاعِلُنْ وَفَاعِلَاتُنْ: اور بقیہ اوزان انہی سے ماخوذ ہیں۔ الفَعْلَةُ: فعل کا اسم مرۃ۔ الفَعْلَةُ: عادت۔ اَلْفَاعِلُ الْكِيْمَاوِي: دو یا دو سے زیادہ مادوں کا باہمی اثر کرنا۔ اس سے کیمیائی اجسام کی طبیعت میں تبدیلی کا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ جیسے آکسیجن اور ہائیڈروجن کی تاثیر میں۔ السَّعَالُ: اچھا فعل۔ کرم اور کبھی شرمیں استعمال کیا جاتا ہے۔ الفِعَالُ: جمع فَعِلٌ: جس کو بہت سے آدمی کریں۔ فِعَالُ الْفَأْسِ: کپھاڑے کا دستہ ج فُعَلٌ۔ الفَاعِلُ قَاتٍ فَاعِلُونَ وَفَعْلَةٌ مَوْنٌ فَاعِلَةٌ ج فَاعِلَاتٌ وَفَوَاعِلٌ۔ المُفْتَعَلُ: منع ہر وہ چیز جو بغیر مثال سابق کے بنائی جائے۔ کہا جاتا ہے "جاء فلانٌ بالمُفْتَعَلِ" یعنی اس نے بڑا کام کیا۔ شِعْرٌ مُفْتَعَلٌ: عجیب و غریب شعر۔ فَعَمَ (ف) فَعَمًا وَفَعَمٌ وَأَفْعَمَ الْإِنَاءُ: برتن بھرنا۔ أَفْعَمَ الْمِسْكَ الْبَيْتَ: مہکا نا۔ خوشبو سے بھر دینا۔ اِرْفَعَمَ الرَّجُلُ: خوشی سے بھر دینا۔ خوش کرنا۔ فَعَمَ (ف) وَفَعِمَ (س) فَعَمًا وَأَفْعَمَ الرَّجُلُ: غضبناک کرنا۔ فَعَمَ (ک) فَعَامَةً وَفَعُوْمَةٌ الْإِنَاءُ: او السَّاعِدُ: بھر جانا۔ صفت فَعَمٌ وَفَعْمَلٌ: لام کی زیادتی کے ساتھ کہا جاتا ہے "هُوَ فَعْمٌ الاعضاء" وہ تو موند ہے۔ اِفْعَوْعَمَ: بھر جانا اور بہہ پڑنا۔ سَيْلٌ مُفْعَمٌ: بھر دینے والا سیلاب۔ بطور اسناد مجازی۔ الاقْعَمُ: بھرنے کی وجہ سے چھلکنے والا۔ فَعِي تَفْعِيَةٌ الْجَمَلُ: اَدْنَتْ پراساپ کی شکل</p>	<p>الفط: مص۔ بہت بدخلق اور سخت کلام۔ ج الفاظ: اوجھ کا پانی جو جنگلوں میں ٹھوڑ کر بیا جاتا ہے۔ ج فظاظ و فظوظ۔ الفط: بُری شکل و صورت کا ایک آبی درندہ اور اس کے مذکر کے اوپر کے جڑے میں دو لبے لیے دانت ہوتے ہیں۔ الفضاطة: کڑا۔ فَطَعَ (ک) فَطَاعَةُ الْأَمْرِ: قباحت بڑھ جاتا۔ قباحت میں حد سے گزر جاتا۔ صفت فَطَعَ وَفَطِيعٌ۔ فَطَعَ (س) فَطَعًا الْإِنَاءُ: برتن کا بھر جانا۔ فَلَانٌ بِالْأَمْرِ وَبِئْسَ الْأَمْرُ: کام کو بڑا سمجھنا اور اس کے انجام دینے کا اعتماد نہ کرنا۔ أَفْطَعَ الْأَمْرُ: قباحت بڑھ جانا۔ اِفْطَعَهُ: امر تبیخ میں ڈالنا..... اَفْطَعَ الْأَمْرُ: تبیح پانا۔ أَفْطَعَ: امر تبیح نازل ہونا۔ فَطَعَ الْأَمْرُ: تبیح بنانا۔ مبالغہ کرنا۔ تَفَطَّعَ وَاسْتَفْطَعَ الْأَمْرُ: تبیح پانا۔ الْفَطِيعُ: خوشگوار پانی یا آب زلال۔ أَفْطَى الْفِطَاءُ: الرُّجُلُ: بدخلق ہونا۔ الْفَطِيُّ: بچہ دانی۔ فَفَعَّعَ فَعْفَعَةً بِالْغَنَمِ: بکریوں کو فتح فتح کہہ کے ہانکنا اور اس آواز کو فَعْفَعٌ یا فَعْفَاعٌ کہتے ہیں۔ تَفَفَّعَ الرَّجُلُ فِي أَمْرِهِ: جلدی کرنا۔ فَعَلَ (ف) فَعَلًا: کرنا۔ بنانا اور اسم اس سے الفِعل ہے۔ فَعَّلَ الْبَيْتَ الشُّعْرِيَّ: تَفْطِيعٌ کرنا اور وزن تَفْطِيعٌ کا ایسے اجزاء سے ہے جس کا مادہ ف ع ل ہے۔ اِنْفَعَلَ: ہو جانا۔ متاثر ہونا۔ اِنْفَعَلَ الشَّيْءُ: اِيْجَادٌ کرنا..... اَلْحَطُّ: جعل سازی کرنا۔ کہا جاتا ہے "اِنْفَعَلَ عَلَيْهِ زَوْرًا وَكَذَّبًا" اس نے اس پر جھوٹ و بہتان باندھا۔ الفِعل: کام۔ ج فِعال و اَفْعال ج اَفْعِيلُ۔ الافْعِيلُ وَالْفَاعِيلُ: عِنْدَ الْعَرَبِ وَضِيْعِيْنِ:</p>
---	--	---

فَعِيمٌ (س) فَعِيمًا بِالشَّيْءِ: مشتاق ہونا۔
 حریس ہونا..... بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔
 أَفْعَمَ. الْمَكَانَ: خوشبو سے بھار دینا۔
الْإِنْسَاءَ: برتن بھر دینا..... الرَّجُلَ: خوشی
 سے بھر دینا۔

تَفَاعَمًا: ایک دوسرے کو بوسہ دینا۔
 انْفَعَمَ الْمَكَانَ: خوشبو سے بھر جانا۔
 وانْفَعَمَ. الزُّكَامَ: زکام کا اچھا ہونا۔
 الفَعْمُ: بوس۔ کھانے کا وہ حصہ جو دانتوں
 کے درمیان سے نکالا جائے۔
 فَعْمَةُ الطَّيْبِ: خوشبو کی بھڑک۔
 الفَعْمُ وَالْفَعْمُ: منہ۔ ٹھوڑی مع جڑوں
 کے۔

الفَعِيمُ: مشتاق حریس کہا جاتا ہے "كَلْبٌ
 فَعِيمٌ عَلَى الصَّيْدِ" کتا شکار کر حریس ہے۔
 المَفْعَمُ: منع مشتاق حریس۔

الْمَفْعُومُ: منع۔ زکام زدہ۔ شَيْءٌ
 مَفْعُومٌ: خوشبوؤں سے بسایا ہوا۔
 فَعَمًا يَفْعَمُوا فَعْوًا. الْأَمْرَ: پھیلانا..... الزُّرْعَ
 : بھیت کی خشک ہونا۔

أَفْعَى الرَّيْحَانَ: شگوفہ دار ہونا..... فَلَانٌ: غنا
 کے بعد محتاج ہونا۔ حسن کے بعد بد صورت
 ہونا۔ طاعت کے بعد نافرمان ہونا..... ہ
 : غصناک کرنا..... الشَّجَرَ: درخت
 میں کٹی کھانا۔

الفَعْوُ: بوس۔ حنا کا پھول۔
 الفَاعِيَّةُ: حنا کی کلی اور کہا گیا ہے کہ وہ پھول
 جو حنا کی شاخ کو اٹنا گاڑ دینے سے نکلتا ہے
 اور وہ حنا کے پھول سے زیادہ اچھا ہوتا ہے
 اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ فَاعِيَّةُ ہر خوشبودار کلی
 کو کہتے ہیں۔
 الفَعْوَةُ: خوشبو کہا جاتا ہے "فَعْوَةُ الطَّيْبِ" خوشبو
 کی بھڑک۔

الْفَوَظِلُ: چھالہ۔
 فَعَا (ف) فَعَاً وَفَعَاً تَفْعِيَةُ الدُّمْلِ:
 پھوڑے کو چیرنا۔ شگاف کرنا..... الْعَيْنَ:
 آنکھ پھوڑنا۔

تَفَقَّأً وَانْفَقَّأً: شگاف ہونا۔ پھوڑنا۔
 الفَقْأُ: باریک سی چھلی جو تین کے سر کے
 گردا گرد ہوتی ہے اور ولادت کے وقت
 پھٹ جاتی ہے۔ مَفْقُوءٌ.
 الفَقَاةُ وَالْفَاقِيَاءُ: بمعنی الفقہاء۔

الفَقْءُ وَالْفَقِيءُ: پتھر کا گڑھا۔ سخت زمین کا
 گڑھا جس میں پانی جمع ہو جائے۔

فَقَّحَ (ف) فَقَّحًا وَفَقَّحَ الْجَرُوءَ: کتے کے
 لیے کا آکھیں کھولنا..... النَّبَاتَاتُ: نباتات
 کا کلی دار ہونا۔ شگوفہ کھلانا..... فَلَاتًا: کسی کے
 ڈیر پر مارنا..... الشَّيْءُ: کسی چیز کا سنوف
 کرنا۔

تَفَقَّحَ: کھلانا۔ شر کے لیے آمادہ ہونا۔
 تَفَاقَحَ. الْقَوْمَ: ایک دوسرے کی طرف پیٹہ
 کرنا۔

الْمَفْخِحَةُ مِنَ النَّبْتِ: کلی۔ ڈیر کا حلقہ۔ رَج
 فِقَاحٍ (..... وَالْفَقَاحَةُ) پھیل۔
 الفِقَاحُ مِنَ كَلْبٍ نَبْتٌ: کلی کہا جاتا ہے "فِلَانٌ
 مُنْفَقِحٌ لِلسَّرِّ" فلاں شر کے لیے آمادہ
 ہے۔

فَقَّهَهُ (ض) فَقَّهْنَا وَفَقَّهْنَا وَفَقَّهْنَا
 وَفَقَّوْذًا وَانْفَقَّهَهُ: گم کرنا۔ کھونا۔

أَفَقَّهَهُ. الشَّيْءُ: گم کرنا۔
 تَفَقَّهَهُ وَانْفَقَّهَهُ: گم شدہ کی تلاش کرنا۔ کہا
 جاتا ہے "مَا انْفَقَّهْتُهُ مُنْذُ انْفَقَّهْتُهُ" یعنی
 جب سے میں نے اسے گم کیا تلاش نہیں کیا۔
 تَفَاقَدَ الْقَوْمَ: بعض کا بعض کو کھونا۔

الْمَفَاقِدُ: قا۔ وہ عورت جس کا شوہر یا لڑکا مر
 گیا ہو۔

الْفَقِيْدُ: گم شدہ کہا جاتا ہے "مَا انْفَقَّهْتُهُ
 او غَيْرَ مَفْقُوءٍ" یعنی وہ مر گیا اور اس کے
 مرنے کی کوئی پروا نہیں۔

فَقَّرَ (ن) فَقَّرًا وَافْقَّرَ: کھودنا.....
 الْخَزْرُؤُ: پروانے کے لیے بندھنا..... الشَّيْءُ:
 کا ثنا اور اثر کرنا کہا جاتا ہے "فَقَّرْتُهُ وَفَقَّرْتُهُ
 السَّاهِيَةَ" اس پر ایسی مصیبت نازل ہوئی
 جس نے اس کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دیا۔

فَقَّرَ الْفَسِيلَةَ: پودا لگانے کے لئے گڑھا
 کھودنا۔

فَقَّرَ (س) فَقَّرًا: ریڑھ کی ہڈی میں مرض یا
 شگاف کی وجہ سے درد ہونا۔ صفت فَاقَّرَ
 وَفَقَّرَ وَمَفْقُورٌ۔

فَقَّرَ (ك) فَقَّارَةً وَافْتَقَّرَ: مفلس ہونا۔
 اِنْفَقَّرَ إِلَيْهِ: محتاج ہونا۔ صفت فَاقَّرَ رَجُلٌ فَقَّرًا
 مَوْنَتْ فَاقَّرَةً رَجُلٌ فَاقَّرَاتٌ وَفَقَّائِرٌ وَفَقَّرَاءٌ.
 أَفْقَرَةٌ: مفلس بنانا..... هُ الصَّيْدُ: شکار کا اپنی
 جانب سے موقع دینا..... هُ الْأَرْضُ:
 زراعت کے لئے عاریت پر دینا۔ أَفْقَرَةٌ
 أَفْقَرَةٌ لِظَهْرٍ سَوَارِيٍّ كَلَيْهِ تَجْمِيرٌ عَارِيًّا
 دینا۔ أَفْقَرُ ظَهْرٍ الْمَهْرُ: بچھیرے کا سواری
 کے قابل ہونا۔

تَفَاقَّرَ: فقیری ظاہر کرنا۔
 الْفَقْرُ: بوس۔ بوس۔ غم۔ رَجُ الْفَقْرُ
 وَمَفَاقِيرٌ: بچھن۔ کات۔ رَجُ الْفَقْرِ.
 الْفَقْرُ: مفلس۔ جانب رَجُ الْفَقْرِ.
 الْفِقْرَةُ: ریڑھ کی ہڈی رَجُ الْفَقْرِ وَفَقَّرَاتٌ
 وَفَقَّرَاتٌ.

الْفَقَّارَةُ: ریڑھ کی ہڈی رَجُ الْفَقَّارِ.
 ذُو الْفِقَارِ: سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تلوار کا
 لقب۔ فَقَّارُ الْجَوْزَاءِ: برج جوزا کے
 ستارے۔

الْفِقْرَةُ: فقر کا اسم نوع۔ نشان پہاڑ کا ہوا
 کسی اور چیز کا۔ کلام یا جملہ کا لطیف نکتہ۔
 قصیدہ کا عمدہ شعر رَجُ الْفَقْرِ.

الْفِقْرَةُ: قرب۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مِنْكَ
 فِقْرَةٌ" یعنی تم سے قریب ہے گڑھا۔ گریبان۔
 امر عَظِيمٌ رَجُ الْفَقْرِ وَفَقَّرَاءٌ.

الْفَقَّارِيُّ: ریڑھ کی طرف منسوب۔
 الْفَاقِرَةُ: سخت مصیبت جو گویا ریڑھ کی ہڈی کو
 توڑ دے۔ رَجُ الْفَوَاقِرِ.

الْفَقِيْرُ: مفلس۔ محتاج رَجُ الْفَقْرِ مَوْنَتْ فَاقِرَةً
 رَجُ الْفَقْرِ رَجُ الْفَقْرِ وَفَقَّرَاءٌ: حوض کی نالی۔
 گڑھا جس میں کھجور کا پودا لگایا جائے۔ عوام
 اسے بیش کہتے ہیں۔ رَجُ الْفَقْرِ.

الفَقَّاعُ: بواخت خمیث۔ الفَقَّاعُ: جوکی شراب۔ الفَقَّاعِي: جوکی شراب پیچنے والا۔ الفَقَّاعَةُ: بلبلج فقاع۔ المُقَفَّع: نوکدار موزہ۔ السُّفْقَعَةُ: ایک کالے رنگ کا پرندہ ہے جس کے دم کی جڑ سفید ہوتی ہے۔ فَقْفَقُ فُقْفُقَةُ: تخت محتاج ہونا۔ الْكَلْبُ: کتے کا ڈر سے بھونکنا۔ (..... وَتَفَقَّقَ الرَّجُلُ فِي كَلَامِهِ: حلق سے نکالنا۔ السُّفْقَاقُ وَالْفُقْفَاقَةُ: بے وقوف۔ بکواس کرنے والا۔ فَقَلَّ (ن) فَقْلًا: البَيْدَرُ: کھلیان میں غلہ بکھیرنا۔ أَقْلَلُ: المَكَانُ: سرسبز ہونا۔ الفَقْلُ: مسم۔ سرسبز۔ المِفْقَلَةُ: غلہ بکھیرنے کا آلہ۔ ج مفاقل۔ فَقَمَ (ن) فَقَمًا وَتَفَقَّمَ الرَّجُلُ أَوْ الكَلْبُ: ناک کو پکڑنا..... المَرَاةُ: جماع کرنا۔ فَقَمَ (س) فَقَمًا إِنَاءً: بُر ہونا کہا جاتا ہے "أَكَلُ المَرَجُلُ حَتَّى فَقَمَ" مرد نے کھایا یہاں تک کہ ختم ہو گیا۔ (..... فَقَمًا وَفَقَمًا) الرَّجُلُ: سامنے کے دانتوں کا باہر نکلتا۔ صفت أَفْقَمُ: مَوْنُثُ فُقَمَاءُ ج فُقَمٌ..... الرَّجُلُ: اکرٹا۔ فَقَمَ (س) فَقَمًا وَفَقَمًا وَفُقَمًا وَفُقَمًا وَفُقَمًا: فُقَمًا (ک) فُقَمَاءَةً وَفُقَمًا: الأَمْرُ: عظیم ہونا اور ناہموار ہونا۔ صفت أَفْقَمُ فُقَمُ الشَّيْءُ: وسیع ہونا۔ الفُقَمُ وَالفُقَمُ: تھوٹنی کا کنارہ۔ جِزَا۔ السُّقَمُ: سمجھ دار آدمی جو مقابل پر غالب آئے۔ الفُقَمُ: مند۔ الفُقَمَةُ وَالفُقَمَةُ: ایک قسم کی پھیل اور یہ پھیل دودھ دینے والے جانوروں میں سے ہے۔	المِفْقَاصُ: گرز کے سرے کا گول حصہ۔ فَقَطُ: کلمہ ہے جو فا اور قط سے مرکب ہے اور اس کے معنی لاغیر کے ہیں۔ یعنی صرف۔ بس۔ فَقَطُ الحِسَابِ: تعیین مقدار کے بعد فقظ لکھنا تاکہ کوئی کچھ بڑھانہ سکے۔ فَقَعَ (ف ن) فَقَعًا وَفَقُوعًا: لَوْنُهُ: رنگ کا صاف و خالص ہونا یا گہرا زرد ہونا..... الرَّجُلُ: سخت گرمی سے مر جانا..... الفَلَامُ: لڑکے کا بڑھانہ..... فَقَعًا الشَّيْءُ: چرانا۔ کہا جاتا ہے "فَقَعْتُهُ السُّوَاقِ" مصائب نے اسے ہلاک کر دیا۔ فَقِعَ (س) فَقِعًا: سرخ رنگ ہونا۔ گہرا رنگ ہونا اور اکثر اس کا استعمال زرد رنگ کے لئے ہے۔ فَقَعَ: بے معنی گفتگو کرنا..... أَصَابِعُهُ: انگلیاں چمکانا..... المَوْزِدَةُ: گلاب کی پتی کو ایک ہاتھ پر رکھ کر دوسرے ہاتھ سے مار کر پھاڑنا اور آواز نکالنا۔ الأَدِيمُ: چمڑے کو سرخ رنگنا۔ أَفْقَعَ: محتاج ہونا۔ بُر حال ہونا۔ تَفَاقَعَتْ عَيْنَاهُ: آنکھوں کا سفید ہونا۔ إِنْفَقَعَ: پھٹنا۔ السَّقَعُ وَالفِقْعُ: سانپ کی چھتری جو نرم اور سفید ہوتی ہے۔ ج أَفْقَعُ وَفُقُوعُ وَفُقَعَةُ الفِقْعُ: جھاجی۔ الفَاقِعُ: فا۔ خالص صاف رنگ اور مشہور یہ ہے کہ یہ زرد رنگ کے لئے صفت کے طور پر مستعمل ہے۔ الفَاقِعَةُ: مَوْنُثُ فَاقِعُ: مصیبت ج فَوَاقِعُ. الأَفْقَعُ: بہت زیادہ سفید مَوْنُثُ فُقَمَاءُ ج فُقَعُ. السُّقِيعُ: مرد سرخ قام۔ کیوتر کی ایک قسم۔ واحد فُقِيعَةٌ. الفِقْعُ: سخت سپیدی۔ لَوْنُ (فُقَاعِي) گہرا رنگ کہا جاتا ہے أَيْبَضُ فُقَاعِي: بہت سفید۔	الفَقْفَرُ: ترتیب وار کٹومیں۔ جن کا پانی ایک دوسرے میں جاتا ہو۔ زَكِيَّةٌ فِقْفُورَةٌ: کھدا ہوا کٹواں۔ الفَقْفَرُ: مصیبت۔ المُفْقَرُ: قوی مرد۔ سواری کے قابل پکھیرا۔ السُّفْقَارُ: اسباب فقر اور اس کے لئے کوئی واحد نہیں اور کہا گیا ہے کہ یہ فقر کی جمع خلاف قیاس ہے جیسے حسن کی جمع محاسن اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مُفْقَرَةٌ: بمعنی فقر کی جمع ہے۔ السُّفْقَرُ: مضبوط ریزہ والا کہا جاتا ہے "سَيْفٌ مُفْقَرٌ" تلوار کہ جس کی پشت پر ہموار خراشے ہوں۔ زَجَلٌ مُفْقَرٌ: بالکل فرمانبردار مرد۔ فَقَسَ (ض) فُقَسًا: البَيْضَةُ: انڈے کو ہاتھ سے توڑنا۔ پھاڑنا..... الطَّائِرُ بَيْضَتَهُ: پرندہ کا انڈے کو توڑنا اور بچہ نکالنا۔ الحَيَوَانُ: نمل کرنا..... الرَّجُلُ: بالوں کو پکڑ کر چیخے گھیننا..... ه عَنِ الأَمْرِ: زبردستی پٹانا۔ عَنِ الشَّيْءِ: جھین لینا۔ فُقُوسًا: اچانک مرنا۔ کودنا۔ تَفَقَّسَ وَانْفَقَسَ الشَّيْءُ: اُلْتُ جانا۔ تَفَاقَسَ الرَّجُلَانُ: ایک دوسرے کے بالوں کو پکڑ کے نیچے گھیننا۔ الفُقَاسُ: جوڑوں کا مرض۔ الفُقُوسُ: خربوزہ کی ایک قسم واحد فُقُوسَةٌ. المِفْقَاسُ: جال کی ٹکڑی جو پرند پر اُلْتُ پڑتی ہے۔ فَقَشَ (ن) فَقَشًا البَيْضَةَ: انڈے کو ہاتھ سے توڑنا۔ فَقَصَ (ض) فَقْصًا وَفَقَّصَ: البَيْضَةَ وَنَحْوَهَا: انڈے اور نیرہ کو ہاتھ سے توڑنا۔ پھاڑنا۔ صفت مَفْقُوضٌ وَفُقِضَةٌ وَفُقُوضَةٌ: تَفَقَّصَتْ وَانْفَقَّصَتْ: البَيْضَةُ عَنِ الفَرُخِ: انڈے کا ٹوٹنا اور بچہ کا ظاہر ہونا۔ الفُقُوسُ: پکا خربوزہ۔ الفَقِيسُ: بل کے لوہے کا چملا۔
---	--	---

فَقِهَ (س) فَقَّهَهَا وَفَقَّهَهُ (ك)
 فَقَّاهَةً: جاننا۔ فقہ ہونا۔
 فَبَّهَ (س) فَبَّهَهَا وَتَفَقَّهَ الشَّيْءُ او
 الْكَلَامُ: سمجھنا کہا جاتا ہے "فَقَّهَهُ عَنْهُ"
 الْكَلَامُ" اس نے اُس کی گفتگو کو سمجھ لیا۔
 وَتَفَقَّهَ الرَّجُلُ: علم فقہ سیکھنا اور حاصل کرنا۔
 فَهَهُ (ك) فَهَّهَا الرَّجُلُ: علم میں غالب
 ہونا۔
 فَهَّهَ وَأَفَهَّهَ فَلَاتَانَا: سکھانا۔ سمجھانا۔
 فَاهَّهَ فَلَاتَانَا: فقہ میں غالب ہونا۔
 الْفَهْفَهَةُ: کسی شے کا جاننا اور سمجھنا۔ احکام شرعیہ
 کا علم اِدْلہ تفصیلیہ کے ساتھ حذات
 زیر کی۔
 الْفَقِيهُ وَالْفَقِيْهَةُ وَالْفَقِيْهَةُ: بہت سمجھ دار ذ کی علم۔
 علم فقہ کا جاننے والا۔ فَهَّهَ فَهَّاهُ مَوْثِقٌ
 فَيَقِيْهَةُ وَفَقِيْهَةُ فَهَّهَ وَفَقَّاهَهُ:
 الْمُسْتَفْقِيْهَةُ: نو ح کرنے والی کا ساتھ دینے
 والی عورت۔
 فَهَّاهُ يَفْقَهُ فُقُوًا: اَثْرُهُ: نشان قدم پر جانا۔
 پیچھے جانا۔
 فِقْوَةُ السُّهُمِ: سو فار۔ تیر۔ فَهَّهَ فَهَّهَ
 فَكَّ (ن) فَكَّ الشَّيْءَ: جدا جدا کرنا۔
 الْعَقِيْدَةُ: گرہ کھولنا۔ الْعَظْمُ: ہڈی کو جگہ
 سے ہٹا دینا۔ الْعَضْمُ: مہر کو توڑنا۔
 فَكَّ (ن) فَكَّاهُ وَفَكَّاهُ وَفَكَّاهُ
 الْاَبْيَسُ: قیدی کو چھڑانا۔ يَنْدُهُ: ہاتھ کھولنا
 الْاِذْعَامُ: ادغام نہ کرنا جیسے لَا تَمُدُّ
 وَلَا تَمُدُّ: میں۔
 فَكَّ (ن) فَكَّاهُ وَفَكَّاهُ الرَّجُلُ: بہت
 بوزھا ہونا۔
 فَكَّ (س) فَكَّاهُ وَفَكَّاهُ وَفَكَّاهُ
 الرَّهْنُ: رہن چھڑانا۔
 فَكَّ (س) فَكَّاهُ وَالْفَكَّ الْعَظْمُ: ہڈی
 کا جگہ سے ہٹ جانا۔
 فَكَّ (س ن) فَكَّاهُ وَفَكَّاهُ: سُوت و بے
 وتوف ہونا۔
 أَفَكَّ الظَّنَّ مِنَ الْجِبَالِ: ہرن کا جال میں

بڑ کر نکل بھاگنا۔
 فَكَّاهُ: الگ الگ کرنا۔ چھڑانا۔
 فَكَّاهُ: الگ الگ ہونا۔ چھڑانا۔
 الْمَخْنُتُ: خفیف الحرکاتی کی چال
 چلنا۔
 اِنْفَكَّ: جدا ہونا۔ کھلنا۔ الْعَبْدُ: آزاد کیا
 جانا کہا جاتا ہے "مَا اِنْفَكَّ يَنْفَعَلُ
 كَذَا" ہمیشہ ایسا کرتا رہا اور یہ افعال ناقصہ
 میں سے ہے اور نفی اس کے لئے لازم ہے۔
 اِسْتَفَكَّ: رہائی طلب کرنا۔
 الْفَكَّ: مصل۔ جِزَاءً فَكَّاهُ
 الْفِئَاكُ وَالْفِئَاكُ: جس سے رہن
 وغیرہ کو چھڑایا جائے۔
 الْفِئَاكُ: فا۔ بہت بڑھا۔ بہت بے
 وتوف۔ فَهَّهَ فَهَّاهُ
 فَكَّاهُ مَلِكِيَّةٌ: بڑے پتوں والے ایک
 پودے کا نام بعض دفعہ اس کے پتے کا قطر دو
 میٹر ہو جاتا ہے۔
 الْفِئَاكُ: صينہ مبالغہ۔
 الْاَفْكُ: وہ شخص جس کی ہڈی جوڑ سے ہٹ
 گئی ہو۔ مَوْثِقٌ فَهَّاهُ فَهَّاهُ
 فَكَّرَ (ض) فَكَّرًا وَفَكَّرًا وَفَكَّرًا
 وَتَفَكَّرَ فِي الْأَمْرِ: سوچنا۔ غور کرنا۔ تامل
 کرنا۔
 الْفِكْرُ: سوچ۔ بچار۔ غور و فکر۔ فَهَّاهُ
 کہا
 جاتا ہے "مَا لِي فِي الْأَمْرِ فَكَّرًا"
 وَفَكَّرَ" مجھے معاملہ میں کوئی حاجت نہیں۔
 "وَلِي فِي الْأَمْرِ فَكَّرَ" میرے لئے معاملہ
 میں غور و فکر ہے۔
 الْفِكْرَةُ وَالْفِكْرِيَّةُ: معاملہ میں سوچ بچار۔
 غور و فکر۔ فَهَّاهُ فَهَّاهُ
 الْفَاكُوْرَةُ فَهَّاهُ كِيُوْرُ: دروازے کو خود کھلنے
 سے بچانے کے لئے لکڑی وغیرہ کا ٹڑا۔
 الْفَيْكِيْسُ وَالْفَيْكُوْرَةُ: بہت سوچ بچار کرنے
 والا۔
 فَكَّعَ (س) فَكَّعًا وَفَكَّعًا الرَّجُلُ: غم یا
 غصہ کی وجہ سے سر جھکانا۔

فَكَّعَ (ف) فَكَّعًا وَفَكَّعًا: جاننا۔ کہا جاتا
 ہے "ذَهَبَ فَمَّا يَلْدِي أَيْنَ فَكَّعَ" گیا اور
 نہیں معلوم کہ کہاں گیا۔
 الْفَكَّعُ: کھاسی۔
 اِفْتَكَلَ فِي فِعْلِهِ: اچھی طرح سر انجام دینا۔
 الْاِفْتَكَلُ: لوگوں کی جماعت۔ کچکی۔ کہا جاتا
 ہے اخذہ افکل: جبکہ خوف یا سردی سے
 کا پنے لگے اور یہ تخوین کے ساتھ مستعمل
 ہے۔ "وَخِلاءَ الْقَوْمِ بِأَفْئِيلِهِمْ
 وَبِأَفْئِيلِهِمْ" یعنی تمام قوم آئی۔
 الْمَفْكُولُ: کچکی والا۔
 فَكَّنَ (ن) فَكَّنَا فِي الْكِذْبِ: جھوٹ
 بولنے میں اصرار کرنا۔
 تَفَكَّنَ: تعجب کرنا۔ فکر کرنا۔ افسوس کرنا۔
 پشیمان ہونا۔
 فَكَّاهُ (س) فَكَّاهُ وَفَكَّاهُ: خوش طبع۔ ہنسنے
 ہنسانے والا ہونا۔ صفت فَكَّاهُ وَفَكَّاهُ
 وَفَكَّاهُ مِنْهُ: تعجب کرنا فَكَّاهُ لِلشَّيْءِ
 : تعجب ہونا۔ کہا جاتا ہے "لَوْ سَمِعْتُ
 حَدِيثَ فُلَانٍ لَمَّا فَكَّاهْتُ لَهُ" اگر تم فلاں
 کی بات سنو تو متعجب نہیں ہو گے۔
 فَكَّاهُ الرَّجُلُ: میوہ کھلانا۔ کلام شیریں کر کے
 خوش کرنا۔
 تَفَكَّاهُ: میوہ کھانا۔ بِالشَّيْءِ: لذت حاصل
 کرنا۔ بِهِ: فائدہ اٹھانا۔ مِنْهُ: تعجب
 کرنا۔ پشیمان ہونا۔ بِفُلَانٍ: غیبت کرنا۔
 کہا جاتا ہے "تَرَكْتُ الْقَوْمَ يَتَفَكَّهُونَ
 بِعَرَضِ فُلَانٍ" یعنی میں نے لوگوں کو ایسی
 حالت میں چھوڑا کہ وہ فلاں کی غیبت سے
 لذت حاصل کر رہے تھے۔
 فَكَّاهُ مَفَّاهَةُ الرَّجُلِ: مزاح کرنا۔
 تَفَكَّاهُ الْقَوْمُ: آپس میں مزاح کرنا۔
 الْفَكَّاهَةُ وَالْفَكَّاهَةُ: خوش طبعی۔
 الْاِفْكُوْرَةُ: خوش طبعی۔ تعجب انگیز۔
 الْفَكَّاهَةُ: خوش طبع۔ ہنسوز۔ خود پسند۔ آکڑ
 باز۔ میوہ خور مَوْثِقٌ فَكَّاهُ فَهَّاهُ
 الْفَاكَّاهُ: فا۔ میوہ والا۔ خوش طبع۔

الْفَالِحَةُ: مؤنث فاعلة: هر دم کا پھل جس کو کھا کر لذت حاصل کی جائے ج فَوَاحِشہ فَاكِهَةٌ الشَّيْءِ: آگ۔

الْأَفْجَهُ: اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ مِنْ أَفْجِهِ النَّاسِ" فلاں بہت مزاج کرنے والا ہے۔

الْفَالِكَةُ: بیوہ فردش۔
فَلٌ (ن) فَلًا وَقَلِيلَ السَّيْفِ: تلوار کو دندانہ دار کرنا۔ الْقَوْمُ: قوم کو شکست دینا۔

قَلٌّ (ض) فَلًا عَنِ فُلَانٍ عَقْلُهُ: عقل زائل ہونے کے بعد لوٹ آنا۔

أَفْلٌ: الرَّجُلُ: مال ضائع ہونا۔ الْقَوْمُ: قوم کا ہجر زمین پر پہنچنا۔ تَفَلَّلٌ وَإِنْفَلٌ: قوم کا شکست کھانا۔

تَفَلَّلٌ وَإِنْفَلٌ: السَّيْفُ: تلوار کا دندانہ دار ہونا۔

إِسْتَفَلَ: السَّيْفُ: تلوار کو دندانہ دار کرنا۔ الشَّيْءُ: کسی چیز کا ادنیٰ حصہ لینا۔ رَجُلٌ قَلٌّ وَقَوْمٌ قَلٌّ: شکست خوردہ واحد جمع برابر اور بھی اقلان و قلوب: جمع آتی ہے۔

الْفَلُّ: بمس تلوار کی دھار میں ٹوٹ یا دندانہ ج فللول: جو کسی چیز سے گرے جیسے لوہے کا برادہ۔ آگ کی چنگاری۔ جماعت ج قلوب و فلال۔

الْقَلُّ: خشک زمین جس میں کچھ نہ اُگے کہا جاتا ہے "هُوَ قَلٌّ مِنَ الْخَيْرِ" وہ خیر سے خالی ہے ج قُلٌّ و اقلال۔

الْفِلُّ وَالْفَيْلَةُ: خشک زمین جس میں کچھ نہ اُگے ج فلالی۔ السُّلُّ: پھول جو چنبیلی کے مشابہ ہوتا ہے اور خوشبو تیز ہوتی ہے۔

الْقَلُّ: تلوار کی دھار کا کند ہونا۔ الفلَّة: تلوار کی دھار کا دندانہ۔

سَيْفٌ قَلِيلٌ وَأَقْلٌ وَمَقْلُولٌ وَمَقْلٌ: کند تلوار۔ دندانہ دار تلوار۔

حَبِيَّةٌ قَلْبِيٌّ: شکست خوردہ فوج۔

الْقَلِيلُ: جماعت (.....) وَالْقَلِيلَةُ: جمع بال۔

فَلَّتْهُ (ض) فَلْنَا وَأَفَلَّتْهُ: رہا کرنا۔ چھوڑنا۔ فَلْتُ وَأَفَلْتُ وَتَفَلْتُ وَانْفَلْتُ: رہا ہونا۔ چھوڑنا۔ أَفَلْتُ وَتَفَلْتُ إِلَى شَيْءٍ: جھگڑا کرنا۔ تَفَلْتُ عَلَيْهِ: کوہنا۔ حملہ کرنا۔

فَالَّتْهُ فَلَاتًا وَمَفَالَتْهُ: اچانک آنا۔ پانا۔ اِنْفَلْتُ: الكلام: فی البدیہہ کہنا۔

الْأَمْرُ: بغیر توقف کے کام کرنا۔ اِنْفَلْتُ عَلَيْهِ: بغیر کسی دوسرے کے کام کو پورا کر دینا۔ الشَّيْءُ: جلدی سے لینا۔

أَفَلْتُ: اچانک مرنا۔ ہامر مَحْدًا: تیاری سے پہلے اچانک مشغول کیا جانا۔ أَفَلْتُ الشَّيْءُ: اچانک لیا جانا۔

إِسْتَفَلْتُ: الشَّيْءُ مِنْ يَدِهِ: چھین لینا۔ اِنْفَلْتُ: رہائی۔ کہا جاتا ہے "مَالِكٌ مِنْهُ فَلْتُ" تمہیں اس سے رہائی نہیں۔

قَرَسٌ فَلْتَانٌ: تیز گھوڑا ج فَلْتَانٌ وَرَجُلٌ فَلْتَانٌ: چست دلیر قوی دل شری طرف جانے والا۔

الْفَلْتِيُّ: وہ شخص جو اپنے آپ کو برائیوں سے محفوظ نہ رکھے۔ اِنْفَالِيٌّ: وہ جانور مویشی جو باندھا نہ گیا ہو۔ (عامی لفظ) اپنی ہوس پر

چلنے والا نوجوان۔ اِنْفَالَتُهُ مَوْتُ اِنْفَالِيٍّ: برائی سے غیر محفوظ خاتون۔ اِنْفَالَتُهُ: وہ گانا جو مرد و موسیقی آوازوں کے مطابق نہ ہو۔

الْأَنْفَالَاتُ: مختصر وقت کے لئے گیس کی تیزی سے بڑ جانا۔ جیسے انجن میں ہوتا ہے۔ قَرَسٌ فَلْتُ وَفَلْتُ: تیز گھوڑا۔

الْفَلْتَةُ: فَلْتُ: کا اسم مرہ۔ بغیر غور و فکر کے کام۔ مہینہ کی آخری رات ج فَلْتَاتُ۔ فَلْتَاتُ الْكَلَامُ: کلام کی لغزشیں۔ غلطیاں۔

کہا جاتا ہے "خَسِرَ الرَّجُلُ فَلْتَةَ" مرد اچانک نکل گیا وحدث الامرُ فَلْتَةَ: اچانک واقعہ ہو گیا و هو في بردة لهُ فلته: وہ ایسی چھوٹی اور تنگ چادر میں ہے جس کے دونوں کنارے مل نہیں سکتے۔

كَسَاءُ قُلُوْتٌ: چھوٹی تنگ چادر۔

فَلَجٌ (ن ض) فَلَجًا وَفَلُوجًا الشَّيْءُ: بھاڑنا۔ دوکلا کرنا۔ الْحَرَاثُ الْأَرْضُ: کاشتکار زمین کو جوتنا۔ الْوَالِي الْجَزْمَةُ بَيْنَهُمْ وَعَلَيْهِمْ: والی کا جزیہ کو تقسیم کرنا۔ مقرر کرنا۔ فَلَجًا وَفَلَجًا الْقَوْمُ وَعَلَى الْقَوْمُ: کامیاب ہونا۔

فَلَجٌ (ن ض) فَلَجًا وَفَلُوجًا الشَّيْءُ: بھاڑنا۔ دوکلا کرنا۔ الْحَرَاثُ الْأَرْضُ: کاشتکار زمین کو جوتنا۔ الْوَالِي الْجَزْمَةُ بَيْنَهُمْ وَعَلَيْهِمْ: والی کا جزیہ کو تقسیم کرنا۔ مقرر کرنا۔ فَلَجًا وَفَلَجًا الْقَوْمُ وَعَلَى الْقَوْمُ: کامیاب ہونا۔

سَهْمُهُ: غالب آنا۔ الرَّجُلُ: مطلوب پر فتح مند ہونا۔ لهُ: موافق فیصلہ کرنا۔ فَلَجٌ بِحَاجَتِهِ: ثابت کرنا۔

فَلَجٌ (س) فَلَجًا وَفَلَجَةً: قدموں یا ہاتھوں یا دانتوں کے درمیان فاصلہ والا ہونا۔ صفت اَفْلَجٌ: مؤنث فَلَجَاءُ ج فَلَجٌ: فاج زدہ ہونا۔

فَلَجٌ: فاج زدہ ہونا۔ فَلَجَةٌ: کامیابی میں غالب آنا۔

فَلَجٌ الشَّيْءُ: تقسیم کرنا۔ الْأَمْرُ: غور کرنا۔ تدبیر کرنا۔

أَفْلَجٌ: مطلوب پر فتح مند ہونا۔ عَلِيٌّ خَصْمُهُ: غالب آنا اور کامیاب ہونا۔ اللَّهُ فَلَجْنَا عَلَى فُلَانٍ: غالب کرنا۔

بُرْهَانُهُ: دلیل ظاہر کرنا اور پیش کرنا۔ لِي: موافق فیصلہ کرنا۔ تَفَلَجٌ: پھٹنا۔

إِنْفَلَجَ الضُّحُ: صبح کا روشن ہونا۔ الفلج: بمس آدھا۔ چاند۔ ج قُلُوجٌ۔

..... وَالْفَلَجُ وَالْفَلَجَةُ: کامیابی۔ فتح مندی۔

الْفَلَجُ: آدھا (.....) وَالْفَالِحُ: ایک قسم کا پیمانہ ج قَوْلِجٌ۔

الْقَلَجُ: بمس دونوں قدم یا دانتوں کے درمیان فاصلہ۔ صبح۔ مندی۔

الْفَالِحُ: فا۔ ایک مرض ہے جس سے پورے بدن کا آدھا حصہ بالکل بے کار ہو جاتا ہے۔ دوکوبان والا اونٹ (.....) مِنَ السَّهَامِ: کامیاب تیر۔

الْفَالِحَةُ: خیر کا ایک تختہ۔

الْمُفْلِحَةُ: مِنَ الْأَسْنَانِ: علیحدہ علیحدہ

وانت۔

المفلوج: قانج زدہ ج مفلج۔

المفلوج: لکھنے والا۔

المفلوجة: کاشت کے قابل زمین ج
فلانج۔

فلح (ف) فلح الارض: زمین جوتنا۔

..... فلانا: بکر کرنا (..... فلانحة) لبقوم

وبالقوم: خرید و فروخت میں دھوکا دینا۔

فلح (س) فلح: نیچے کے ہونٹ کا پھٹنا۔

صفت الفلح اور ہونٹ کو فلحاء کہتے ہیں ج

فلح۔

فلح بہ: ٹھنکا کرنا۔ استہزاء کرنا۔ بکر کرنا۔

الفلح الرجل: مطلوب پر کامیاب فتح مند

ہونا۔ کوشش میں کامیاب ہونا..... بالشئ:

زندگی گزارنا۔

استفح بہ: کامیاب فتح مند ہونا۔

الفلح: بھس۔ بچھن۔ ج فلوج۔

الفلح والفلحة: نیچے کے ہونٹ کا پھٹنا۔

الفلحة: زمین قابل کاشت۔

الفلح والفلح: کامیابی۔ درستی۔ حال۔

بقا۔ نجات کہا جاتا ہے "حسی علی

الفلح" یعنی کامیابی اور نجات کے راستے

کی طرف آؤ۔ الفلاح: بحری۔

الفلاحة والفلحة: کھیتی باڑی۔

الفلح: کاشتکار۔ ملاح۔ کرایہ پر جانور

دینے والا ج فلانحة و فلانحون۔

المفلحة: باعث کامیابی۔

مفلیح الشفة او الیدین او القدمین:

سردی کی وجہ سے پھٹے ہوئے ہونٹ یا ہاتھ یا

قدم والا۔

تفلحس: بے بلائے سہان ہونا۔

الفلحس: حریص۔ لالچی۔ کتا۔ بوڑھا

رہجھ۔ وہ شخص جو لوگوں کے کھانے کے

انتظار میں رہے۔

الفلحسة: لاغر سرین کی بد صورت عورت۔

الفلحاس: توج بد صورت۔

فلح (ف) فلح الشئ: پھاڑنا۔

الامر: واضح کرنا۔

فلنحه: نارنا۔

الفلیح: ہاتھ کی پچلی ج قبالح۔

غلام افلود: موٹا تازہ لڑکا۔

فلذ (ض) فلذ انه من المال شیئا: حصہ

جدا کرنا۔

فلذ: کلڑے کلڑے کرنا۔

افلذہ المال: کچھ حصہ لینا۔ افلذہ من

فلان حقه: کسی سے اپنا حق لینا۔

الفلذ: اونٹ کا کلیجہ ج افلاذ۔ افلاذ

الارض: زمین کے خزانے۔

الفلذة: جگر یا گوشت یا سونے وغیرہ کا ٹکڑا

ج فلذ و فلذ و افلاذ۔

الفالوذ والفالوذ ج والفالوذق: فالودہ ج

فوالید۔

الفولاذ: فولاد و باج فوالید۔

المفلوذ من السوف: فولاد کی بنی ہوئی

تلوار۔

الفلیز والفلیز والفلز: پیدا تانا۔ لوہے کا

میل۔ زمین کی ساری دھاتوں پر اطلاق

ہوتا ہے۔ بڑا سخت آدمی۔ بجیل۔ جس پر

تلوار کو آزمائیں۔

فلس القاضی: فلانا: کسی کے دیوالیہ

ہونے کا حکم لگانا۔

افلس: بال باقی نہ رہنا۔ اور اس سے یہ

ارادہ کیا جاتا ہے کہ وہ ایسی حالت پر پہنچ گیا

ہے کہ اس کے بارے میں یوں کہا جاسکے کہ

"انیس معة فلس" یعنی اس کے پاس پیسے

نہیں۔ صفت مفلس ج مفلسون

ومفالیس۔

الفلس: پیسہ ج افلس و فلوس۔ فلوس

السمک: مچھلی کے سنے اور کہا جاتا ہے

"فلان فلس من کل خیر" یعنی فلاں ہر

خیر سے خالی ہے۔

الفلاس: صراف پیسے فروخت کرنے والا۔

المفلس: مفع جس کی کھال پر مچھلی کے سنے

جیسے ہوں۔

تفلسف: فلسفی بنا۔ مسائل علیہ میں بحث

کرنا۔ حذاقت کا دعویٰ کرنا۔

الفلسفة: حکمت۔ مسائل علیہ میں غور و فکر۔

اشیاء کا علم بحسب الطاقۃ البشریہ۔

الفلسوف: فلسفی ج فلاسفة۔

فلش الامیعة و فلشها: سامان بکھیر دینا۔

(سر ریائی لفظ) المفلوش: وہ شخص جو اپنے

کام درست نہ کر سکے۔

فلص. الرجل: چھڑانا۔ رہائی دینا۔

افلص و انفلص و تفلص: رہائی پانا۔

افلص من یدہ: لینا۔

فلط (ن) فلط عن الشئ: سرگشتہ ہونا۔

حیران ہونا۔

فالطة: اچانک آنا۔ پانا۔

افلطة الامر: اچانک آنا۔

افلط بالامر: اچانک مشغول کیا جانا۔

الفلط: اچانک۔

فلطح فلطحۃ القرص: بکریہ کو پھیلانا۔ چوڑا

کرنا۔

تفسطح او تطیط الارض: زمین کے دو

قطر استوائی اور قطبی کے درمیان فرق جب

کہ اس کو قطر استوائی پر تقسیم ہو اس کی مقدار کا

فرق ۲۹۷/۱۵ ایک ہے۔ اور مشتری کا ۱/۱۵

ہے۔

الفلطاح والمفلطح: چوڑا کیا ہوا۔

فلع (ف) فلعا و فلع الشئ: پھاڑنا۔

تفلع: پھٹنا۔

افلع: پھٹنا۔

الفلع والفلع: بوائی۔ بچھن ج فلوج۔

الفلعة: کوہان کا ایک ٹکڑا ج فلع۔

الفالعة: مصیبت ج فوالع۔

سيف فلوج: شمشیر براں ج فلع۔

سيف مفلع: شمشیر براں۔

مزاود مفلعة: چمڑے کے ٹکڑوں کا پوندنگا

ہوا تو شدوان۔

فلع (ف) فلعا. راسہ: سر توڑنا۔ پکڑنا۔

تفلع الشئ: ریزہ ریزہ ہونا۔

فلَقْلُ الطَّعَامِ: کھانے میں مرج ذالنا۔ فَلْفَلٌ وَتَفْلَفُلٌ: چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا اور تکرار سے چلنا۔ تَفْلَفَلْتُ. حَلَمَاتِ الضَّرْعِ: پستان کی بھٹی کا سیاہ ہونا۔ تَفْلَفُلٌ شَعْرُ الْأَسْوَدِ: بال کا سخت گھٹنگھر یا لے ہونا۔ الْفُلْفُلُ وَالْفِلْفِيلُ: مرج واحد فُلْفِيلَةٌ. الفُلْفِيلَةُ: ایک قسم کی نباتات ہے جس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم مرج کی مانند تیز ہوتی اور دوسری قسم میں تیزی نہیں ہوتی۔ شَرَابٌ مُفْلَفَلٌ: تیز شراب و شَعْرٌ مُفْلَفَلٌ: سخت گھٹنگھر یا لے بال۔ فَلَقِي (ض) فَلَقًا وَفَلَقِي الشَّيْءَ: پھاڑنا۔ اللَّهُ الضُّحَى: رات کی تاریکی زور کرنا اور صبح ظاہر کرنا۔ أَفْلَقَ الشَّاعِرُ: عجیب کلام کہنا۔ صفت مُفْلِقٍ بِالْأَمْرِ: ماہر ہونا۔ تَفْلَقٌ: پھینا۔ دوڑنے میں کوشش کرنا۔ الضُّحَى: صبح ہونا۔ افلَق: عجیب کام کرنا۔ دوڑنے میں کوشش کرنا۔ إِنْفَلَقَ: پھینا۔ الْفَالِقُ: فا۔ پہاڑ کا شکاف۔ الْفَالِقَةُ: فالق: کاموٹ۔ دو ٹیلوں کے درمیان پست زمین۔ الْفَلِقُ: جس پھین ج فُلُوقٍ. فُلُقُ الرِّاسِ: مانگ۔ الْفَلِقِيُّ: امر عجیب۔ مصیبت۔ آدھا۔ الْفَلْقُ: صبح۔ کل مخلوق۔ اشکال کے بعد حق کی وضاحت۔ دو ٹیلوں کے درمیان پست زمین۔ دوزخ۔ پہاڑ کا شکاف۔ ج فَلَقَانٍ: پیالہ کی ٹی کا دودھ۔ بطور تھارت کے کہا جاتا ہے "تینا اِنْبَن شَارِبِ الْفَلْقِي" مجرم کو سزا دینے کی ایک قسم کی ککڑی۔ وَالْفَلْقُ مِنَ اللَّبَنِ: پھینا ہوا دودھ ج أَفْلَاقٍ. السَّفَلَقَةُ: بھٹی ہوئی چیز کا آدھا۔ داغ جو اُونٹ کے کان کے نیچے لگائیں۔ الْفَلْفَلَةُ: ککڑا۔ ج فَلَقِي.	الْفَلَّاقَةُ: ککڑا۔ ج فِلَاقٍ. السَّفَلَقَةُ: بھٹی ہوئی چیز کا آدھا۔ مصیبت۔ ج فَلَقِي. الفَلِقِيُّ وَالْفَلْفِيْقَةُ وَالْمَفْلَقَةُ وَالْفَلْقِيُّ: مصیبت۔ امر عجیب الْفَلْقِيُّ: گردن کی ابھری ہوئی رگ۔ السُّفْلَانُ: سفید جھوٹ۔ خالص جھوٹ لَبْنٌ فَلَاقٍ وَفُلُوقٌ پھینا ہوا دودھ۔ کہا جاتا ہے "صَارَ اللَّبْنُ فَلَاقًا وَفِلَاقًا وَأَفْلَاقًا" یعنی ترشی کی وجہ سے دودھ پھٹ گیا۔ السَّمْرُ الْفَلْقِيُّ وَالْمُفْلَقِيُّ: خشک پھل جو گھٹلی سے جدا ہو گیا ہو۔ الْفَيْلِقُ: بڑا لشکر۔ بڑا آدمی ج فَيَالِقِي. رَجُلٌ فَيَلِقِي: کا نام مرد۔ اِمْرَأَةٌ فَيَلِقِي: بڑی چالاک شہر مچانے والی عورت۔ السُّفْلِقِيُّ: قا۔ شاعر مُفْلِقِي: عجیب کلام کہنے والا شاعر۔ المِفْلَاقُ: ناپسندیدہ افعال کرنے والا مقلد ج مَفَالِقِي. رَجُلٌ مِفْلَاقٌ: کمینہ زور ذلیل آدمی۔ الْمَفْلَقَةُ: بلاوختی۔ الْمَفْلُوقُ: کان کے نیچے داغ لگا ہوا اونٹ۔ فَلَقَعَ مَا فِي الْإِنَاءِ: برتن کا کل پی جانا یا کھا جانا۔ تَفْلَقَخَ إِلَى الْقَوْمِ: خوش خبری دینا۔ الْفَلْفَجِيُّ: ہنس کھ۔ فَلَكٌ (ن) فَلَكًا فَذِي الْجَارِيَةِ: لڑکی کی پستان کا گول ہونا۔ فَلَكْتُ وَفَلَكْتُ الْجَارِيَةَ: گول پستان والی ہونا۔ صفت فَالِكٌ ج فَوَالِكٍ. فَلَكَ وَأَفَلَكَ الْفَذِيُّ: پستان کا گول ہونا۔ السَّرْجُلُ فِي الْأَمْرِ: کسی معاملہ میں اصرار کرنا۔ تَفَلَكَ وَأَسْفَلَكَ فَذِي الْجَارِيَةِ: لڑکی کے پستان کا گول ہونا۔ الْفَلَكَ: آسمان۔ ج فَلَيْكٍ وَفَلَكَ وَأَفَلَكَ وَالْفَلَكَ وَالْفَلَكَ مِنْ مَحَلِّ شَيْءٍ: گول	اور بڑھین البحر: موج۔ ریت کا ٹیلہ۔ جس کے ارد گرد کھلا میدان ہو۔ زمین کے گول ککڑے جو ارد گرد کی زمین سے بلند ہوں۔ واحد فَلَكَ وَفَلَكَ ج فِلَاقٍ. السَّفَلِكُ: ابھری ہوئی ہڈیوں والا۔ سخت جوڑوں والا۔ جس کے زانو کی چھٹی میں درد ہو۔ ج رَجُلٌ فَلَيْكٌ: بڑے سرین والا۔ السَّفَلِكِيُّ: فلک کی جانب منسوب۔ علم نجوم کا ماہر۔ السَّفَلِكَةُ: فلک کا واحد۔ ہر وہ چیز جو بلند اور گول ہو۔ ج فَلَيْكٍ وَفَلَكَ فَلَيْكَةُ الْمَغْرُولِ: چرنے کا دمڑ کا ج فَلَيْكٍ. الْأَفَلَكَ: گول زمین کے گرد گھومنے والا۔ الْأَفَلْيَكِيَانُ: حلق کے کوے کے ارد گرد گوشت کے دو ککڑے۔ السَّفَلِكُ وَالْمَفْلَكُ: مِنَ الْبِنَاءِ: گول پستان والی عورت۔ السَّفَلِكُ سُرَّةُ: انگور کے تنے کو چوسنے والا ککڑا۔ السَّفَلَمُ ج أَفْلَامٌ: کیٹ۔ فوٹو گرافی میں استعمال والا انکلیو۔ قصہ کہانی۔ عِلْمُ الْفَلَكَ: آسمان کے برجوں کا علم۔ یہ بات رکھی ضروری ہے کہ ہر ماہ ستاروں کے طلوع ہونے میں دو گھنٹوں (گھنٹوں) کا فرق ضروری ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جو ستارہ آٹھ بجے حریران (جون) کے شروع میں طلوع ہوتا ہے وہی ستارہ دس بجے ایار (مئی) کے شروع میں طلوع ہوگا۔ اُس کے برعکس یہ ستارہ چھ بجے (تموز) جولائی کے شروع میں طلوع ہوگا۔ السَّفَلِيمُ: بڑے جشہ کا مرد۔ چوڑا کنواں۔ کھٹی۔ بزدل۔ بڑی زلفوں والا۔ بہت لشکر۔ دسترخوان کے نیچے بچھانے کا چھرا۔ فَلَاقٌ وَفَلَانَةٌ: ذوی العقول کے علم کا کتنا یہ کیا جاتا ہے اور اس صورت میں ان پر الف لام داخل نہیں ہوتا اور فَلَانَةٌ: غیر منصرف
--	---	---

ہے۔ کہا جاتا ہے جہاں فَلَائِنُ: تنوین کے ساتھ اور جہاں ث فَلَائِنَةُ: بغیر تنوین کے اور کبھی غیر ذوی العقول کے علم سے بھی کنایہ کیا جاتا ہے اس صورت میں الف لام داخل ہوتا ہے جیسے رَكِبْتُ الْفَلَائِنَ وَحَدَّبْتُ الْفَلَائِنَةَ۔

فَلَا يَفْلُو فُلُوًا وَقَلَاءٌ: سفر کرنا۔

ہ بِالسَّيْفِ: تلوار سے مارنا۔۔۔۔۔

الْقَوْمِ: درمیان میں آنا۔

وَالْفَلْسِيُّ وَالْفَلْسِيُّ الصَّبِيُّ او الْمُهْرُ: بیچ یا

پچھیرے سے دودھ چھڑانا۔۔۔۔۔ الْفَلَامُ:

لڑکے کی پرورش کرنا۔ اِفْتَلَاةٌ لِنَفْسِهِ: اپنے

لئے لینا۔ اَفْلَسَى الرَّجُلُ: جنگل میں داخل

ہونا۔ اَفْلَسْتُ الْفَرَسَ: پچھیرے والی ہونا۔

دودھ چھڑانے کے قابل پچھیرے والی

ہونا۔ صفت مُفْلٍ وَمُفْلِيَةٍ۔

الْفُلُو: پچھیرا یا گدھے کا بچہ جو دودھ چھڑانے

کے قابل ہو یا جن کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو۔

جِ اَفْلَاءٍ وَقَلَاءٍ۔

الْمَفْلُوُّ وَالْمَفْلُوَّةُ: بمعنی فُلُوَجِ اَفْلَاءٍ وَوَقَلَاوِي

مَوْثِ فِلُوَّةٍ وَقَلُوَّةٍ۔

الفلاة: وسیع بیابان جِ فِلُوَاتٍ وَقَلَاٍ وَقَلِي

وَقَلِي: اور فَلَائِنُ کی جمع اَفْلَاءٍ۔

فَلْسِي يَفْلِسِي فَلْيَا الْاَمْرَ: کسی معاملہ کے

اسباب و وجوہ پر غور کرنا۔۔۔۔۔ الشِّغْرُ: شجر

میں غور کرنا اور معانی و غرائب کا استخراج

کرنا۔۔۔۔۔ ہ بِالسَّيْفِ: تلوار سے مارنا۔۔۔۔۔

زَيْدًا فِي عَقْلِهِ: آزمائش کرنا۔۔۔۔۔ وَقَلِي

تَفْلِيَةً زَامَةً او نُؤْتَهُ: سر یا کپڑے سے

جوئیں نکالنا۔

قَلِي يَقْلِي قَلِي: الشُّيْ: کٹنا۔

فَلْسِي وَالْفَلْسِيُّ وَالْفَلْسِيُّ: الْقَوْمِ: درمیان میں

آنا۔ اَفْلَسَى الْقَوْمَ بِعَيْنِهِ: قوم کو غور سے

دیکھنا۔

تَفْلِي: سر یا کپڑے میں سے جوئیں نکالنا۔

الطائِبُ: پرندہ کا چوچ سے ہڈوں کو کھجانا۔

تَفَالِي وَاسْتَفَالِي: کسی سے جوئیں نکالنے کی

خواہش کرنا۔ تَفَالَيْتِ الْبِنَاءُ: ایک

دوسرے کی جوئیں نکالنا۔۔۔۔۔

الْحَضْرُ: گدھوں کا ایک دوسرے کو کھجانا۔

اسْتَفْلَاةٌ: تلوار سے سر پھاڑنے کے درپے

ہونا۔

الفلاية: جوئیں نکالنا۔

الفالية: چھری۔ داغ دار گہری یا سانپوں کے

بلوں کے قریب رہا کرتا ہے اور اسی وجہ سے

اس کو فالية الاقاعی بھی کہتے ہیں۔ فالية

الاقاعی: شکر کا پیش خیر۔

الْقَمُّ وَالْقَمُّ وَالْقَمُّ مِنَ الْاِنْسَانِ: منداصل

وضع کے لحاظ سے (فہوہ) ہے۔ اس کا تشبیہ

فَسَانِ قَمُوَانٍ وَقَمِيَانٍ اور جمع افواہ (یا اعتبار

اصل وضع کے) اور اَفْاَسَامِ: اور نسبت کے

لئے قَمُوِيٌّ وَقَمِيٌّ۔

فَنَ (ن) كَفَنَّا الشَّيْءَ: مزین کرنا۔۔۔۔۔ الرَّجُلُ:

مشقت میں ڈالنا۔۔۔۔۔ هُ فَنِي الْبَيْعِ: نقصان

دینا۔۔۔۔۔ فَنَ الْبَيْدَيْنِ: قرض کو مانگنا۔۔۔۔۔

الايِلِ: اونٹ کو دفع کرنا۔ ہانکنا۔

فَنَنَ: الشُّيْ بِالشُّيْ: ملانا۔۔۔۔۔ النَّاسِ: جدا

جدا کرنا جماعت وار کرنا۔۔۔۔۔ رَايَهُ: رنگ

برنگ رائے بدلنا۔

تَفَنَّنَ: الشُّيْ: قسم بہ قسم ہونا۔ مضطرب ہونا

۔۔۔۔۔ وَاَفَنَّنَ فِي الْحَدِيثِ: اچھے اسلوب

سے بیان کرنا اَفَنَّنَ فِي حُصُوْمِيَّةٍ: قسم قسم کی

باتیں کہنا۔

اسْتَفَنَّنَ: فَرَسَهُ: گھوڑے کو گونا گوں چال

چلانا۔

الْفَنُّ: مہم۔ قسم۔ قسم۔ حال جِ اَفَنَانٍ وَقُنُونٍ جِ

اَفَنَانِيْنِ۔ اَفَنَانِيْنِ الْكَلَامِ: کلام کے مختلف

اسلوب۔ کہا جاتا ہے "لَقِيْتُ مِنْهُ فَنًا" یعنی

اس سے مجھے تکلیف ہوئی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ

فَنٌ عَلِيمٌ" وہ علم کے ساتھ بہتر تعلق رکھنے

والا ہے۔

اَلْفَنُّ: سے مراد وہ عمل جس کو کرنے والا اعلیٰ

جمال و کمال میں پیش کرے۔ فَنُونٌ

الشُّعْرُ: شعروں کی انواع و اقسام۔ اَلْفَنُونُ

الجھیلہ: وہ فنون جو خوبصورتی کو اجاگر

کریں جیسے موسیقی، نوٹوگرافی، شعر، بلاک

سازی، ڈیزائن سازی، تعمیر اور نقش۔

اَلْفَنُونُ اللَّيْذَةُ: جن کے کرنے سے لذت

(اگرچہ گناہ والی) محسوس ہو جیسے ناچ، گانا

اور گھوڑ سواری اَلْفَنُونُ الْحُرَّةُ: وہ فنون جن

میں ہاتھ کے بجائے ذہن زیادہ کام کرتے۔

اَلْفَنُونُ الْبَدْوِيَّةُ: وہ فنون جن میں ہاتھ زیادہ

زیادہ استعمال ہو بہ نسبت عقل کے۔ جیسے:

سنگ تراشی وغیرہ۔

الفنن: سیدھی شاخ جِ اَفَنَانٍ جِ اَفَانِيْنِ

الفننة: فن کا اسم مرہ۔ مدت۔

الفننة: بہت گھاس۔

شجرۃ فناء و فنواء: بہت شاخ والا

درخت۔

الفينان: لمبے بال والا۔ شَعْرُ فَيْنَانٍ: لمبے

اچھے بال۔

الاقسنون: قسم۔ گنجان ٹہنی۔ ابتداء جوانی۔

ابتداء بادل۔ مضطرب کلام۔ سانپ۔ جِ

اَفَانِيْنِ۔

المقنن: عجیب عجیب امور کرنے والا مَوْتِ

مَفْنَةٍ۔

المفنة: بدخلق بوڑھی عورت۔

المستفنين: فنا۔ گونا گوں حالات والا۔

گونا گوں صنعت والا۔

الفنن: جماعت۔

الفنناء: کثرت۔

فَنَسَجَرَ عَيْنِيَه: آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تیز نگاہ

سے دیکھنا۔

الفناجرة: ماہرین شہ سواری۔

الفنجان: چائے پینے کی پیالی جمع فناجین۔

الفنجان: سونے تانبے کا سر پر گول زیور۔

فَنَسَخَهُ (ن) فَنَسَخًا وَفَنَخَهُ: غالب ہونا۔

ذلیل کرنا۔ فَنَسَخَ عَظْمَهُ: بغیر خون نکلے

ہوئے ہڈی کو چورہ کرنا۔

فَنَسَخَهُ فَنَسَخًا وَفَنَوَخًا: خوب اچھی طرح قتل

کرنا۔

أَفْخَ زَانَةً - كَلْبَانًا -

تَفْخَعُهُ: مقهور کرنا۔ بہت بُری طرح سے ذلیل کرنا۔

الْفَيْخُ: نرم و کمزور۔ بڑھا۔

السَّفِيحُ: دشمنوں کو بہت ذلیل کرنے والا۔ ان کے سروں کو بہت توڑنے والا۔

فَنَحْرٌ وَفَنَحْرَةٌ: نمتنے پھلانا۔

الْمُنَاخِرُ: بڑی ناک والا۔

وَالْمُنْخِرُ: بڑے ذیل ڈول والا مَوْتٌ فَنَاخِرَةٌ وَفَنَخْرَةٌ۔

الْفَنَخِيرَةُ: بہت نخر کرنے والا۔

فَيْدٌ (س) فَيْدًا وَفَيْدًا: کھوٹ ہونا۔

بڑھاپے کی وجہ سے ضعیف اِغْتَلَّ ہونا۔

جھوٹ بولنا۔ فَيْئِ الرَّأْيِ اَوْ الْقَوْلِ: خطا

کرنا۔ اَفْنَدَهُ: خطا کار بھرانا۔ اَفْنَدَهُ

الْكِبْرُ: بڑھاپے کا کسی کو ضعیف اِغْتَلَّ کر

دینا۔

فَنْدَةٌ: جھٹلانا۔ ملامت کرنا۔ خطا کار بھرانا۔

ضعیف اِغْتَلَّ بنانا۔ فَنْدٌ فِي الشَّرَابِ

: مداومت کرنا۔ الفَرَسُ: کھوڑے کو ذیلا

کرنا۔ چھیرا بنانا۔

وَفَانَدٌ وَتَفَنَّدٌ فَلَانًا عَلَيَّ اَلْاَمْرُ: طلب کرنا۔

تَفَنَّدَ مِنْ كَذَا: تاؤم و پشیمان ہونا۔

الْفَنَدُ: مصل۔ عاجزی۔ کفرانِ نعتِ ج

اِفْنَادُ۔

الفَنَدُ: بڑا پہاڑ۔

الْفَيْدُ: بڑا پہاڑ۔ سُبِي - نوح - جمع شدہ قوم۔

زمین جس پر بارش نہ ہوئی ہو۔ جَ فُنُودٌ

وَأَفْنَادُ: کہا جاتا ہے "اتُوا أَفْنَادًا" یعنی گروہ

گروہ آئے۔ وَالْفَنَادُ اللَّيْلُ: رات کے

حصے۔

الْفُنْدُقُ: سرائے جَ فَنَادِقُ: بندوق۔

الْفُنْدَاقُ: حساب کار جسٹرج فَنَادِيقُ۔

الْفَنَارُ: مشعل۔ روشنی کا منارہ۔ جَ فَنَارَاتُ۔

الْفَنَانُوسُ: چغلی خور۔ مشعل۔ لائین ج

قَوَائِسُ۔

فَنَشٌ: فِئِ اَلْاَمْرِ: سُت ہونا۔

..... عَنِ اَلْاَمْرِ: رُک جانا۔

الْفَيْطَاسُ: جہاز میں بیٹھے پانی کا حوض۔ بیٹھے پانی کے تقسیم کرنے کا پیالہ جَ فَنَاطِيسُ۔

اَنْفُ فَيْطَاسٍ: چوڑی ناک۔

السَّفِيطِيسُ: کمینہ۔ چوڑی ناک والا۔ ناک جس کے نمتنے چوڑے ہوں اور بانسہ پست

ہو۔ جَ فَنَاطِيسُ۔

الْفَيْطِيسَةُ: سورتی تھوٹی۔

فَيْعٌ (س) فَيْعًا: بالدار ہونا۔ صفتِ فَيْعٌ

وَفَيْعٌ۔

الفَيْعُ: مصل۔ بہت بخشش۔ فیاض۔ مٹک کی

بھڑک۔

المَفْئَعُ: اچھی شہرت والا۔ نیک نام۔

فَفَقٌ وَفَاتِقٌ: ناز و نعت سے پالنا۔

اَفْتَقٌ: بختی کے بعد صاحبِ نعمت ہونا۔

تَفْتَقُ: الغلام: ناز و نعت سے زندگی بسر کرنا

..... فِئِ اَلْاَمْرِ: مبالغہ کرنا۔

جَارِيَةٌ فَتَقُ وَفَيْقًا: ناز و نعت میں پلٹی ہوئی

لڑکی۔

الفَيْقُ: نراؤت کر جس کو بوجہ اس کی شرافت

کے نہ تو سواری کے کام میں لائیں اور نہ اس

کو تکلیف پہنچائیں جَ فَفَقٌ جَ اَفَاقُ۔

الفَيْقِيَّةُ: پوری ناز و نعت میں پلٹی ہوئی عورت

جَ فَنَاقُ۔

عَيْشٌ مُفَاقٌ: خوش عیش زندگی۔

الفَنَقُ: موت۔

فَنَكٌ (ن) فُنُوكًا بِالْمَكَانِ: اقامت

کرنا۔

..... وَفَنَكٌ عَلَيَّ اَلْاَمْرِ: مداومت کرنا۔

..... فِئِ اَلْاَمْرِ: اصرار کرنا۔ جھوٹ بولنا۔

فَانَكٌ مُفَانَكَةٌ فِي اَلْاَمْرِ: دخل دینا۔

..... وَفَنَكٌ تَفْنِيكًا: فِي الشَّرِّ

او الكذب: اصرار کرنا۔

الفَنَكُ وَالفَنَكُ: تعجب۔ الفَنَكُ: رات

کا ٹکڑا۔ لومڑی کی جنس سے ایک جانور ہے

جو لومڑی سے چھوٹا ہوتا ہے اور جس کی کھال

کی پوستیں بہت اچھی ہوتی ہے۔

الفَنَكُ: دروازہ (..... وَالفَنَكُ) رات کا

ٹکڑا۔

السَّفِيكُ: انسان کے جیزوں کے ملنے کی

جگہ۔

السَّفِيكُ: ترشہ کار با لک۔ (فرائسی لفظ)

وَالْاَفِيكُ: پرندہ کا دمغزہ۔

المُفَيْكَةُ: بے وقوف عورت۔

الفَنَاءَةُ: بیگنی جَ فَنَوَاتٌ مکوے جَ فَنَاءُ۔

شَجَرٌ فَنَوَاءٌ: بہت شاخوں والا سایہ دار

درخت۔

فَيْئِ وَفَيْئِي فَيْئِي فَنَاءٌ: معدوم ہونا۔

..... السَّرْجُلُ: بہت بوڑھا ہونا کہا جاتا ہے

"صَارَ شَيْخًا فَائِيًا"۔

فَانِي مُفَانَةٌ: الرَّجُلُ: مدارات کرنا۔ تَسْلِيْنٌ

دینا۔ کہا جاتا ہے "كُنَّانُ يُفَسَانِي الْاَيَّامَ

لَا هَيْبًا" یعنی وہ زمانے کو کھیل کود میں بسر کرتا

ہے۔

..... الْمَالُ: مال کا اچھا انتظام کرنا۔

أَفْنَى اِفْنَاءِ الشَّيْءِ: معدوم کرنا۔ ہلاک کرنا۔

تَفَانِي: بعض کا بعض کو ہلاک کرنا۔

الفَانِي: فا۔ پیر فانی۔ کھوٹ بڑھا۔

الفَنَاءُ: مصل۔ معدومی۔ ہلاکت۔

الفِنَاءُ: گھر کے سامنے کا میدان جَ اَفْنِيَّةٌ

وَفَيْئِي: کہا جاتا ہے "هُوَ مِنْ اَفْنَاءِ النَّاسِ" وہ

غیر معروف النسب ہے۔

فَقَةٌ (ف) وَفَهِيَّةٌ (س) فَهَاهَةٌ: بول چال

میں درمیانہ و عاجز ہونا۔ صفتِ فَهٌ وَفَهِيَّةٌ۔

فَقَةٌ (س) فَهًا الشَّيْءُ وَعَنِ الشَّيْءِ: بھولنا۔

فَهِيَّةٌ وَآقَةٌ اَللَّهِ الرَّجُلُ: عاجز کرنا۔ اَفَهَةٌ

الشَّيْءِ: بھولوانا۔

الفَهِيَّةُ: مَوْتٌ فَهَةٌ: عاجزی۔ غفلت۔

فَهْدٌ (س) فَهْدًا: تیندوے جیسا ہونا۔

صفتِ فَهْدٌ وَفَهْدٌ: فَهْدٌ عَنْهُ: غافل ہونا۔

فَهْدٌ (ف) فَهْدُ الْفُلَانِ: کسی کے کام کو اس

کی غیر موجودگی میں اچھا کرنا۔

الفَهْدُ: تیندوے فَهْوْدٌ وَفَهْدٌ۔

الفَهْدَةُ: مادہ تیندوے جَ فَهْدَاتٌ: ڈیر۔

فَسَاحٌ يَفْشُوحٌ فَوْجًا. الْمِسْكُ: مِسْكٌ كِي
خوشبو کا بھڑکنا..... النَّهَارُ: دن کا ٹھنڈا ہونا۔

فَوْجٌ: عَنِ نَفْسِهِ: ٹھنڈا کرنا۔

أَسَاحُ الرَّجُلِ: جلدی کرنا..... الْقِرْسُ
گھوڑے کا دوڑنا۔

أَسْفِجٌ: ہلکا سمجھا جانا۔ ذلیل سمجھا جانا۔

الْفَسُوجُ: جماعت۔ گردہ۔ جِ أَسْوَاجِ
وَفُجُوجِ جِ أَسْوَاجِ وَأَقَانِجِ وَأَقَابِجِ.

الْفَالِجِيَّةُ: جماعت۔ ریت یا سخت زمین کے

دو ٹیلوں کے درمیان کشادگی۔

فَاحَتْ تَفْشُوحٌ فَوْحًا وَفُؤُوحًا فَوْحَانًا

الْقِدْرُ: ہانڈی کا جوش مارنا..... الشَّحَّةُ: زخم

کا خون پھینکنا۔ فَاحٌ وَتَفَاحٌ الزَّهْرُ: پھول

کا مہکنا۔ خوشبو بھڑکنا۔ فَاحٌ الْمِسْكُ او

الطَّيْبُ: مِسْكٌ يَأْتِيهِ خُشْبُوكَا بَهْرُ كِنَا۔

أَفَاحٌ. الدَّمُ: خُونٌ كَرَانَا..... الْقِدْرُ: ہانڈی کو

جوش دینا۔

فَوْحٌ الْحَرِّ: گرمی کی شدت۔

فَاحَتْ تَفْشُوحٌ فَوْحَانًا. الرِّيحُ: ہوا کا چلنا

اور آواز ٹھکانا۔

فَاحٌ وَأَفَاحٌ. الرَّجُلُ: گوز کرنا۔ أَفَاحٌ الزَّرِيحُ

: مِسْكٌ كَامِنٌ كَهَوْلٍ كَرِهُوا كَالنَّارِ۔

فَادَ يَقُودُ فَوْدًا: مرنا..... الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: ملانا

..... الْمَالُ لِفُلَانٍ: ثابت ہونا۔ اور اسم اس

سے الفائدہ ہے۔

أَفَادَ إِفَادَةَ الرَّجُلِ: مارنا۔ ہلاک کرنا۔ أَفَادَ

وَفُلَانٌ الْمَالَ: جمع کرنا۔ کمانی کرنا..... فُلَانًا

مَالًا او عِلْمًا: دینا یا نفع پہنچانا۔

تَفَوَّدَ: الوَعْلُ فَوْقَ الْجَبَلِ: پہاڑی بکری کا

پہاڑ پر چڑھنا۔

اِسْتَفَادَهُ: حاصل کرنا۔

السُّوْدُ: مِصْرٌ۔ كَيْشِيٌّ كَيْشِيٌّ كِي بَالٍ كَمَا جَاءَتْ

ہے "بِئْسَ الشَّيْبُ بِفُؤُودِهِ" یعنی اس کی

دونوں کپٹیاں سفید ہو گئیں۔ السُّوْدُ: بڑا

تھملا۔ بوری۔ فوج۔ کنارہ۔ فُودٌ الْخَبَاءِ او

الْوَادِي: خیمہ یا وادی کا کنارہ جِ أَفْوَادٍ.

المَفْوَادُ: تلف کرنے والا۔

اِسْتَفْهَمَهُ الْأَمْرُ: دریافت کرنا۔ سمجھانے

کے لئے کہا۔

الفَهْمُ: مِصْرٌ۔ سَجَّحَ: کسی چیز کا تصور۔

الفَهْمُ: تیز سمجھ دار۔

الفَهْمَاءَةُ: بہت سمجھنے والا۔ تا مبالغہ کے لئے

ہے۔

الفَهْمِيُّمُ: سمجھ دار۔ جِ فَهْمَاءٌ. فَهْمًا (ن)

فَهْوًا. عَنِ الْأَمْرِ: بھولنا۔

الْأَفْهَاءُ: بے وقوف لوگ۔

فُوفٌ وَهٌ: کامادہ دیکھنے۔

فَاتٌ يَفْشُوحٌ فَوْتًا وَفُؤَانًا الْأَمْرُ: گزرنا۔

وقت جاتا رہنا الْأَمْرُ: حاصل کرنے میں

نا کام رہنا..... هُ فُلَانٌ فِي كَذَا: آگے بڑھ

جانا..... الشَّيْءُ: تجاوز کرنا۔

أَفَاتَهُ إِفَاتَةَ الْأَمْرِ: گزرنے دینا.....

تَفَوَّتَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ: غلبہ کرنا۔

تَفَاوَتْ تَفَاوُتًا وَتَفَاوُتًا وَتَفَاوُتًا الشَّيْئَانِ:

مختلف ہونا۔ دُور دُور ہونا۔

تَفَاوُتًا فِي الْفَضْلِ: فضل و کمال میں مختلف

ہونا۔

اِفْتَاتَ الْكَلَامَ: نئی گفتگو کرنا.....

بِرَأْيِهِ: خود رائی کرنا..... بِأَمْرِهِ: کر گزرنا اور

مشورہ نہ کرنا۔

..... عَلِيٌّ فُلَانٌ فِي الْأَمْرِ: حکم کرنا۔ فیصلہ

کرنا۔

..... هُ الْأَمْرُ: فوت ہونا کہا جاتا ہے "فُلَانٌ

لَا يَفْضُحُ عَلَيْهِ" فلاں کی اجازت کے بغیر

کوئی کام نہیں کیا جاتا۔

السُّوْتُ: مِصْرٌ۔ دُور انگلیوں کے درمیان

کشادگی جِ أَلْوَاتٍ کہا جاتا ہے "بِحَسَلِ

اللَّهِ رُزْقَهُ فُوتٌ فِيهِ" یعنی اللہ نے اس کے

رزق کو ایسا بنایا ہے کہ وہ دیکھتا ہے اور اس

تک پہنچتا نہیں۔

السُّوَاتُ: مِصْرٌ مَوْتٌ أَلْوَاتٍ: اچانک

موت۔

السُّوَيْتُ: خود رائے جو کسی سے مشورہ نہ

کرے۔ (مذکر و مؤنث)

السُّوَادُ: تیندوے والا۔ تیندوے کو شکار

سکھانے والا۔

السُّوَهْدُ: موٹا تازہ قریب البلوغ لڑکا۔

مَوْنٌ فَوْهْدَةٌ.

الْأَفْهُودُ: بھٹی فَوْهْدٌ جِ أَفْهَيْدٌ.

فَهْرٌ الْقِرْسُ او الرَّجُلُ: تھک جانا۔

أَفْهَرٌ: بیہودوں کی عید میں شریک ہونا۔

زَيْدٌ: موٹائی کی وجہ سے سلوث والا ہونا۔

تَفَهَّرَ: فِي الْمَالِ او الْكَلَامِ وسعت ہونا۔

الفَهْرُ: عِنْدَ الْأَطْبَاءِ: دوا پینے کا پتھر۔ جِ

أَفْهَارٌ وَفُهْرٌ.

الفِهْرَةُ: بھٹی الفِهْرِ.

الفِهْرِسُ والفِهْرِيْسُ: کتاب جس میں

کتابوں کے نام جمع کئے جائیں۔ کتاب

کے اوّل یا آخر میں چند اوراق جس میں

کتاب کے ابواب و فصول بیان کر دیئے

جائیں۔ جِ فَهَارِسٌ.

فَهَيْضَةٌ (ف) فَهَيْضًا: توڑنا۔ چلنا۔

فَهَقٌ (ف) فَهَقًا: الرَّجُلُ: چبڑ گردن پر

مارنا۔

فَهَقٌ (س) فَهَقًا وَفَهَقًا. الْإِنَاءُ: برتن کا

لبریز ہو کر چمکنا۔

أَفْهَقٌ. الْإِنَاءُ: برتن کو بھرنا..... الْبَرْقُ

وَعَبْرَةٌ: بَکْلٌ وَغَيْرُهُ كَالْبَحِيلِ كَرَجَمًا.

تَفَهَّقٌ وَأَفْهَقٌ الْحَوْضُ بِالْمَاءِ: حوض کا

پانی سے چمکنا..... الْبَرْقُ وَغَيْرُهُ: بَکْلٌ وَغَيْرُهُ

کالْبَحِيلِ كَرَجَمًا.

الفَهْقَةُ: گردن کی جڑ کی ہڈی۔ جِ فَهَاقٌ.

الْمَفَاقَةُ: زخم جس سے خون جاری ہو۔ بِشَيْرٍ

مُفْهَاقٌ: بہت پانی والا کنواں۔

الْمُفْهَقُ: کشادہ۔

الفَيْهَقُ: کشادہ۔ بہت دودھ والی اونٹنی۔

فَهْمٌ (س) فَهْمًا وَفَهْمًا وَفَهْمًا وَفَهْمًا

وَفَهْمِيَّةٌ: سمجھنا۔

فَهْمَةٌ وَأَفْهَمَةٌ: سمجھانا۔

تَفَهَّمَ: الْكَلَامَ: تھوڑا تھوڑا سمجھنا۔

تَفَاهَمَ: الْقَوْمَ: بعض کا بعض سے سمجھنا۔

الفَوْزُج: ہودج۔ ذہن کی پالکی۔

فَارَتْ تَفُوزُ فَوْزًا وَفَوْزَانًا وَفَوْزًا الْقُدْرَ:

ہانڈی کا جوش مارنا۔ اَبْلَانَا فَارَ السَّمَاءَ: پانی

کا زمین سے ٹکنا اور بہنا۔ العَوْقُ: رگ کا

مضطرب ہونا۔ فَوْزًا وَفَوْزَانًا

الجِنِّکُ) خوشبو کا بھڑکنا۔

فَوْزًا وَأَفَارَ الْقُدْرَ: ہانڈی کو جوش دینا۔

..... فَارَ الْمِيزَانَ: ترازو کے ڈبان کے

ادھر ادھر کے لوہے بنانا۔

الْفَارُ: چوہا۔ وَاحِدُ فَارَةٍ: فَارَةٌ الْإِبِلِ: کھال

کے تر ہو جانے کے بعد کی بو۔

الْفُورُ: مَس۔ جلدی۔ کہا جاتا ہے "رَجَعَ

مِنْ فُورِهِ" جلدی واپس ہوا۔ فَوْزٌ شَحْلٌ شَيْءٌ

: ہر چیز کا اول۔

الْفُورُ: ہرنیاں۔ وَاحِدَاتُهُ: کہا جاتا ہے "لَا

أَفْعَلُهُ مَا لَالَاتِ الْفُورُ" میں اس کو نہیں کروں

گا جب تک ہرنیاں اپنی ذم ہلائی رہیں گی

یعنی کبھی نہیں کروں گا۔

الْفُورَةُ مِنَ الْحَرِّ أَوْ الْغَضَبِ: گرمی یا غصہ

کی تیزی۔ فُورَةُ النَّهَارِ: دن کی ابتدا۔

فُورَةُ النَّاسِ: لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ۔

فُورَةُ الْعِشَاءِ: عشاء کی نماز کے بعد کا وقت

کہا جاتا ہے "أَخَذْتُ الشَّيْءَ بِفُورَتِهِ" میں

نے چیز کو اس کی ابتدا ہی میں لے لیا۔

الْمِيزَانُ: ترازو کے ڈبان کے ادھر ادھر

کے لوہے۔

الْفَائِرُ: قَا۔ کہا جاتا ہے "فَارَ الْهَائِرَةَ" اس کا

غصہ بھڑکا۔

الْفَوَازَةُ: ہانڈی کا اُبال۔

الْفُورُ: اسم مبالغہ۔

الْفُيُورُ: بہت جلدی نسبتاً ہونے والا۔

الْفَوَازَةُ: مَوْنَتُ فَوْارٍ: پانی کا چشمہ۔ فَوَارِهِ:

فَارَ يَفُوزُ فَوْزًا. بِالْأَمْرِ: کامیاب ہونا۔

مِنْ الْمَكْرُوهِ: نجات پانا۔ السَّرْجُلُ

: ہلاک ہونا۔ مَرْنَا:

فُورًا تَقْوِيْنَا السَّرْجُلَ: گزرنا۔ مَرْنَا:

السَّطْرِيْنَ: ظاہر ہونا۔ السَّرَاعِي

سایہ: چراو ہے کا اونٹوں کے ساتھ جنگل
طے کرتا۔

..... وَتَفُوزُ: ایک مُلک سے دوسرے مُلک

میں جاتا۔

أَفَارَ فَلَانًا بِكَيْدًا: کامیاب کرانا۔

الْفَارِزَةُ: دو گھمبوں والا خیمہ۔ کہا جاتا ہے

"ضَرَبَ الْفَارِزَةَ بِالْمَفَارِزَةِ" اس نے بیابان

میں خیمہ لگایا۔

الْمَفَارِزَةُ: نجات۔ کامیابی۔ ہلاکت۔ بیابان

جس میں پانی نہ ہو۔ مَفَارِزَاتُ وَمَقَاوِزُ:

فَوْضٌ تَفْوِضًا. إِلَيْهِ الْأَمْرُ: سپرد کر دینا۔

الْفَوْضِيَّةُ: خوبصورت پھولوں کا پودا۔

..... الْمَرْوَةُ: بغیر مہر کے نکاح کر دینا۔

فَاوِضَةٌ مُفَاوِضَةٌ فِي الْأَمْرِ: برابر ہونا۔

شَرِيكٌ هُوْنَا. اِمْتِنَانٌ جِيتَ كَرْنَا:

تَفَاوِضُ الْقَوْمِ فِي كَيْدًا: بعض کا بعض کے

ساتھ شریک ہونا۔ السَّرِيكَانُ فِي

الْحَالِ: شریک ہونا اور برابر ہونا تَفَاوِضًا

فِي الْحَدِيثِ: بات چیت میں مشغول ہونا

کہا جاتا ہے قَوْمٌ فَوْضِي: ایسی قوم جس میں

سب برابر ہوں اور ان کا کوئی رئیس نہ ہو

"وَأَمْرُهُمْ فَوْضِي يَتَنَهَمُ وَفَوْضُوهُ

وَفَوْضُوهُمْ" ان کا معاملہ مختلط ہے۔ ہر

ایک تصرف کا حق رکھتا ہے "أَمْوَالُهُمْ

فَوْضِي يَتَنَهَمُ وَفَوْضُوهُ

وَفَوْضُوهُمْ" وہ سب مال میں برابر کے

شریک ہیں کوئی فرق نہیں۔ کہا جاتا ہے

بِشْرَكَةٍ مُفَاوِضَةً وَبِشْرَكَةٍ مُفَاوِضَةٍ: وہ

شرکت جس میں شرکاء مال اور تصرف اور

دین کے لحاظ سے برابر ہوں اور اس کے

مقابلہ میں شرکت عثمان ہے وَفَوْضُوهُ

الْعُلَمَاءُ: علمی مسائل کا مددگار۔

السَّمْفُوضِيَّةُ: وہ دائرہ جس کو ذمہ دار افسر

لگائے۔ مَنصِبٌ ذِمَّةٌ دَارِ اَفْرَسَ:

الْفَوْضِيَّةُ: وہ غیر منظم سیاسی نظام حکومت

جس میں عوام پر حکام کا غیر موثر یا معطل تصور

کے کیا جائے۔

الْفَوْضِيَّةُ: غیر منظم حکومت کا ساتھ دینے
والا۔ اَلْأَقَانِيَّةُ: برتنے والا۔

فَوْطَةُ: ازار پینا۔

الْفَوْطَةُ: ازار جس کو خدام استعمال کرتے

ہیں جَ فَوْطًا: اور عوام کے نزدیک رومال کو

کہتے ہیں۔

فَاظٌ يَفُوقُ فَوْظًا وَفَوْظًا: مرنا۔ کہا جاتا ہے

"حَسَنٌ فَوْظَةٌ" یعنی اس کی موت کا وقت آ

گیا۔

الْفَوْغَةُ: مِنَ الطَّيْبِ: خوشبو۔

مِنَ السُّبْمِ: زہری کی تیزی۔ مِّنَ

الشَّبَابِ: جوانی کی ابتدا۔

فَاغٌ يَفُوقُ فَوْغًا الطَّيْبِ: خوشبو بھڑکنا۔

مہلکا۔

الْفَوْغَةُ مِنَ الطَّيْبِ: خوشبو کی بھڑک۔

الْفَائِغَةُ: تیز خوشبو جو ناک کو بھردے۔

الْفَوْغُ: منہ کی موناٹی۔

الْأَفْوَغُ: موٹے منہ والا۔ کہا جاتا ہے فَمَّ

أَفْوَغٌ: مونا منہ "وَرَجُلٌ أَفْوَغٌ" موٹے منہ

والا مرد۔

فَأَفَ يَفُوقُ فَوْفًا: اگلوٹھے اور شہادت کی

انگلی کے ناخنوں کو ملا کر مسائل کو کچھ نہ دینے

کا اشارہ کرنا۔

السُّفُوفُ وَالشُّفُوفُ: گائے بیل کا مٹانہ۔

جوانوں کے ناخنوں کی سفیدی۔ وَاحِدُ فَوْفَةٍ

وَفَوْفَةٍ جَ أَفْوَافٌ.

السُّفُوفُ وَالشُّفُوفُ: دانہ کا چھلکا۔

نُؤَبٌ أَفْوَابٌ وَنُؤَبٌ مَفُوقٌ: ہار ایک کپڑا۔

سُفِيدٌ دِحَارِيٌّ دَارِ كِبْرًا:

فَاقٌ يَفُوقُ فَوْفًا وَفَوْفًا الشَّيْءُ: بلند ہونا۔

..... أَضْحَانُهُ بِالْفَضْلِ أَوْ الْعِلْمِ: بڑھ جانا۔

سَبَقْتُ لَيْ جَانًا:

فَوْفًا يَجِي آتًا)..... فَوْفًا وَفَوْفًا الرِّجْلُ:

قَرِيبٌ الرِّجْلِ هُوْنَا مَرْنَا)..... فَوْفًا السُّنْهُمُ

: سَوفَا رَجِيمٌ كَوْتُورًا الشَّيْءُ: توڑنا۔

فَاقٌ يَفُوقُ وَفَوْقٌ يَفُوقُ فَاقًا وَفَوْقًا وَفَوْقًا

السُّنْهُمُ: سَوفَا رَشِيحٌ هُوْنَا:

فوقہ علی قومہ: فضیلت دینا۔ فوق السہم: سو فار لگانا..... الفصیل: مہلت دے دے کے دودھ پلانا۔

افاق افاقہ من مرضہ: سخت یاب ہونا۔

الحالب: دودھ کے دو بنے کے بیچ میں آرام لینا۔ افاق الناقۃ: تھن میں دودھ جمع ہونا۔ صفت مَفِیئٌ وَمَفِیئَةٌ: متساویق

وفیق: السكران من سکرہ: ہوش میں آنا۔ من النوم: بیدار ہونا..... المسجنون من جنونہ: ہوشیار ہونا..... الزمان: بنگی کے بعد فراموشی آنا..... عنہ العاس: نیند کا اچھ

جاننا من غفلتہ: چونکا ہونا..... وافوق افوقا: وافوق ایضاقا) السہم: تانت پر سو فار رکنا۔

تفوق الشراب: تھوڑا تھوڑا کر کے پینا۔ علی قومہ: بلند ہونا..... الناقۃ: دو بنے کے بعد مہلت دے کر دوہنا۔

الفصیل: مہلت دے کر دودھ پینا..... قالہ: بظہر خبر کے خرچ کرنا۔

انفاق انفاقا: السہم: سو فار لٹوٹنا۔ الجمل: اونٹ کا لہر ہونا اور بلاگ ہونا۔

افاق الرجل: محتاج ہونا۔ فقیر ہونا۔

استفاق الرجل من نومہ او مرضہ او غفلتہ: یعنی افاق..... الناقۃ: اونٹنی کو دو بنے کے بعد مہلت دے کر دوہنا۔

الفاق: کھانے سے بھرا ہوا بڑا پیالہ۔ جنگل۔ کتکھا۔ لہجے قد کا مرد۔ لمبی گردن کا ایک دریائی جانور۔

الفاقۃ: حاجت۔ فقیر۔ محتاج۔

فوق: مہلت دے کر۔ اور یہ طرف مکان ہے اور بھی زمانہ کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے اقمٹ فوق شہر اور بھی زیادتی اور فضل پر دلالت کرتا ہے جیسے العشرۃ فوق البسعة و "هذا فوق ذاک" اور بھی بطور

اسم کے استعمال ہوتا ہے۔ كَفُولِهِ. واذا ذُكِرَتْ فَكُلُّ فَوْقِ ذُوْنِ

الفوقانی: اوپر والا۔ اعلیٰ۔ نقیض تحتانی۔

الفوق: سو فار۔ ج فوق وافوق: زبان کا کنارہ۔ پہلا راستہ۔ کہا جاتا ہے "مسا ازند علی فوقہ" یعنی گیا اور لوٹا نہیں ولہ من گڈا سہم ذوفوق: یعنی وہ ان میں سے اکثر حصے

والا ہے۔ الفوق: سو فار میں بگی۔ الفوقۃ: سو فار ج فوق وفاقا۔ الفیقۃ۔

دودھ جو دودھ دو حصے کے درمیان میں تھن میں جمع ہو جائے۔ الفیقۃ من اللیل: رات کا اکثر حصہ۔ فیقۃ الضحی: چاشت کی ابتداء۔ فیسق و فیسق و فیسقات وافوق وافویق: تم کہتے ہو "ارضعنی افسدین

بسرہ" اس نے میرے ساتھ بہترین احسانات کے الا فویق: پانی جو بادل میں جمع ہو جائے اور تھوڑا تھوڑا برے۔

الفوق والفوق: مہلت دے دودھ دو بنے کے درمیان کا وقت۔ دو بنے والے کے ہاتھ کے بند کرنے اور کھولنے کے درمیان کا

وقت اور اسی سے ان کا قول ہے "امہلسی قلذ فوق حالب" یعنی مجھے ذرا سی مہلت دو" ولہ من گڈا سہم ذوفوق" اس کے لئے فلاں چیز سے حصہ کامل ہے۔

الفوق: چائنی کے وقت کی بنگی ج افوقۃ و آفقۃ و ج افوقات. الفوق: اسم ہے افاق واستفاق الغیلل: سے جبکہ وہ لاغر ہو جائے۔

الفائق: فا۔ برگزیدہ۔ عمدہ خالص ہر چیز کا ج فائقون و فوقۃ. الفائق: سر اور گردن کی جوڑ کی جگہ۔

السہم الافوق: وہ تیر جس کا سو فار لٹوٹ گیا ہو۔ شاعر مَفِیئٌ: شاعر بلوغ۔

طعام مفوق: کھانا جو تھوڑا تھوڑا لیا جائے۔ الفول: لوبیا۔

الفوال: لوبیا بیچنے والا۔ لوبیا پکانے والا۔

فوق: روٹی پکانا۔

السقوم: بسن۔ گیبوں۔ چنا۔ روٹی۔ بڑا لقمہ۔ کل وہ غلے جن کی روٹی پک کے ج فومان۔

السقومۃ: قوم کا واحد۔ خوش چنگی جو دو انگلیوں کے درمیان لی جائے۔ ج قوم۔ الفامی: ہیزی فروش۔

السوفل والسوفل: ہندوستان میں ایک انگوری کا پھل جس کو کزوری دور کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی طاقت

سندل کی طرح ہوتی ہے۔ الفواونیا: اس کا دوسرا نام عمود الکلیب ہے۔ ایک دوائی کا نام۔

فاۃ یفۃ فوھا و تفوہ بگڈا: بولنا۔ و تفوۃ المنکان: وہاں میں داخل ہونا۔ فوہ (س) فوھا: فراخ دہن ہونا۔ فوہۃ: فراخ دہن بنانا۔

فاوۃ مفاوۃ و فاهی مفاھاۃ فلانا: گفتگو کرنا۔ مفاخرت کرنا۔

تفاوۃ القوم بگڈا: آپس میں گفتگو کرنا۔ استفاسۃ استفاسھا و استفاسۃ کسی کے بعد بہت کھانا پینا۔

الفوہ والفاہ والفیہ: منقہ افواہ فو: اسمائے سنگمہ میں سے ایک سے اس کا اعراب حالت رفی میں وا اور حالت نصھی میں الف اور حالت جری میں یا کے ساتھ آتا ہے۔ بشرطیکہ مفرد ہو اور یا۔ تکلم کے

علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف اضافت ہو۔ تم کہو گے سقط لیفہ: یعنی وہ اپنے من کے بل گرا۔ و "کلمتہ فاۃ الی فہی" یعنی

میں نے اس سے رو در رو گفتگو کی تا وہ حالت کی بنا پر منسوب ہے اور ابتدا بیت کی بنا پر

اس کا مرفوع پر حنا بھی جائز ہے۔ اس صورت میں جملہ حال واقع ہو گا۔ جیسے کلمتہ فوۃ الی فہی۔

الفویہ: فوہ کی نصیر۔ چھوٹا منہ۔ الفوہ: منہ کی کشادگی۔ دانتوں کا ہونٹ سے

لکنا۔

الفُوَّةُ والفُوَّةُ: ایک درخت کی جڑیں جو سرخ رنگ کی ہوتی ہیں اور لگائی کے کام میں آتی ہیں اور بعض امراض میں بطور دوا اس کا استعمال ہوتا ہے۔

الفُوَّةُ: فاء کا اسم مرہ۔ منہ۔

الفُوَّةُ: من الوادی والطریق وجبل النار: وادی یا راستہ یا آتش نشاں پہاڑ کا دہانہ فُوہات۔

الفیہ: بہت بولنے والا۔ بلیغ۔ بہت کھانے والا۔ مَوْنَتْ فُوْهَةً۔

الفُوَّةُ: اول شیء من الطريق والوادی وجبل النار: راستہ یا وادی یا آتش نشاں پہاڑ کا دہانہ۔ ج فُوْهَاتُ وَأَفْوَاهُ فَوَاهٍ۔

الفُوْهَةُ: گفتگو۔ چغلی۔ تم کہو گے "فَلَا تَنْ يَخَافُ فُوْهَةَ النَّاسِ" فلاں لوگوں کی گفتگو سے خائف ہے۔ اِنَّهُ لَذُو فُوْهَةٍ: وہ بڑا تیز

زبان زبان زور ہے "وَأَنَّ زَيْدًا الْفُوْهَةُ لَشَدِيدٌ" نقلی ہوئی بات کو لولنا ڈشوار بات ہے۔

الاقوة: چوڑے منہ والا۔ مَوْنَتْ فُوْهَاءُ ج فُوَّةٌ. طَعْنَةُ فُوْهَاءُ: چوڑا زخم کرنے والی نیزہ کی ضرب۔

الاقوواہ: مسالے۔ خوشبو کی ڈیاں۔ قسمیں۔ ج اقَاوِيْهَةٌ وَاَحَدُهَا فُوْهٌ۔

المفوه: بڑا بولنے والا۔ بلیغ۔ کہا جاتا ہے خَاطِبٌ مُفَوِّهُ شَرَابٌ مُفَوِّهُ: خوشبوئی ہوئی شراب (.....) والمفوى: فوہ سے رنگا ہوا۔

ويكمن الفوة: ایک قسم کی نباتات ہے جس سے وجع الجنب اور داء الشعب کا علاج کرتے ہیں

ارض (مقولة) زمین جس میں فوہ بہت ہو (دیکھئے الفوة)

فی: حرف جر۔ معانی ذیل پر دلالت کرتا ہے

(۱) ظریت بیئہ الخمر فی السرق

(۲) مصاحبت: جیسے جاء فی القوم. فَمَثُ

فی سُروُقِ الشَّنْسِ (۳) تغلیل جیسے قَبِلَ

فِي ذَنْبِهِ (۳) مقابلہ جیسے مَا عَلِمْتُ فِي بَحْرِهِ الا قَطْرَةً استعلاء جیسے لاصَلْبَيْنُكُمْ فِي جُرُوعِ النَّخْلِ (۶) بمعنی یا جیسے اَنْتَ بَصِيْرٌ

فِي عَمَلِكَ: بمعنی الی: جیسے رَدِيْدَةٌ فِي جِيْهِ: بمعنی من: جیسے مَضَتْ عَلَيَّ ثَلَاثَةٌ اَشْهُرٌ فِي فَلَائِبِ سِنِيْنِ.

فاء یقیء فینا: لوئنا..... الظل: سایہ کا ہٹ جانا..... الغنیمۃ: غنیمت حاصل کرنا.....

(.....) فینا وفیوئا: الامر: لوٹ آنا۔

فینا تفینۃ الشجر: درخت کا سایہ دار ہونا۔ فینا السیراح الفصون: ہوا کا ٹہنیوں کو ہلانا۔

افاء افاءة: الظل: سایہ کا لوئنا..... ہ الی سخا: لوئنا..... افاء اللہ علیہ مال القوم: مال غنیمت حاصل کر دینا..... علی القوم فینا: دوسری قوم سے مال غنیمت حاصل کر کے دینا۔

تفیا تفیوا: الظل: سایہ کا پلٹنا..... الشجرة وفی الشجرة: درخت کا سایہ لینا۔ سایہ ڈھونڈنا..... الاخباز: خبر کی گن لینا۔ کہا جاتا ہے تفیا بقیہ: سایہ میں پناہ لینا۔

استفاء استفاءة: لوئنا..... المال: مال غنیمت لینا..... الاخباز: خبر کی گن لینا۔

القسیء: حص۔ سایہ۔ غنیمت۔ خراج ج اقیاء وفیوء. القسیء: پرندوں کی ایک نکلوی۔

القیئۃ: فاء کا اسم مرہ۔ لوئنا۔ وقت۔ القیئۃ: فاء کا اسم نوع۔ کہا جاتا ہے "اِنَّهُ حَسَنُ الْقِيئَةِ" وہ بہتر واپسی والا ہے۔ کہا جاتا ہے دَخَلَ عَلَيَّ (قِيئِيَّةٌ) فَلَانِ: یعنی فلاں کے نشان قدم پر داخل ہوا۔

المفء: افاء: کا اسم مفعول۔ المفیاءة والمفیوءة: وہ جگہ جہاں دھوپ نہ ہو۔ سایہ دار جگہ۔

أفاح: فنی عدوہ: دوزخ میں دیر کرنا..... القوم فی الارض: ملک میں پھیل جانا۔ الفقیح: پیک۔ اپنی۔ ہر کارہ۔ خادم۔

لوگوں کی جماعت۔ پست زمین۔ ج فُجُوج۔

السفانحة: دو پہاڑوں کے درمیان وادی۔

ج فَوَاحِج۔

فَاحٌ يَفِيْحُ فَيْحًا وَفَيْحَانًا. الخر: گرمی کا تیز ہونا۔ فَاحَتِ الْقَدْرُ: ہانڈی کا جوش مارنا (.....) فَيْحًا وَفَيْحًا الرَبِيْعُ: سرسبز ہونا..... الدَّمُ: خون گرنا..... الشَّجَّةُ: زخم کا بہت خون بہانا۔

فَاحٌ يَفِيْحُ وَفَاحٌ يَفَاحُ فَيْحًا: کشادہ ہونا۔ فَاحَتِ الْغَارَةُ: وسیع ہونا۔ منتشر ہونا۔

فَيْحُ الشَّيْءِ: بکھیرنا۔ متفرق کرنا اور اسی سے ہے "لَوْ مَلَكَتِ الدُّنْيَا يَفْخَتْهَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ" اگر تم دنیا کے مالک ہو جاؤ گے تو ایک ہی دن میں بکھیر دو گے۔

أَفَاحٌ. الْقَدْرُ: جوش دینا..... الدماء: خون بہانا۔

الفیح والفیح: کشادگی۔

فیحاح: اسم ہے غارت کا کہا جاتا ہے "فیحی فیحاح" یعنی اے غارت پھیل جا اور منتشر ہو جا۔ اور غارت لوٹ ڈالنے والے گھوڑے کو کہتے ہیں۔

القیحاح: اسم مبالغہ۔ قیاض۔ بسخر قیاض: بہت وسیع سمندر۔ رَجُلٌ قِيْحٌ: قیاض۔ بڑا دیا لومرو۔ مَوْنَتْ قِيْحًا.

القیحاح: کشادہ۔ مَوْنَتْ قِيْحَاءُ. ج قِيْحٌ. القیحاح: وسیع مکان۔ بصرہ۔ دمشق اور طرابلس شام کا لقب۔

فَاحٌ يَفِيْحُ فَيْحًا وَفَيْحَانًا: بمعنی فَاخٌ يَفُوحٌ: وادی۔

فَادٌ يَفِيْدُ فَيْدًا: مرنا..... المالُ لَهُ: ثابت ہونا اور بعضوں نے کہا ہے۔ جاتا رہنا۔ فسادت لَهُ فائدة: حاصل ہونا (.....) وَفَيْدٌ الرَجُلُ: ناز سے چلنا۔ فَيْدٌ: الولی آواز سے بدقالی لینا۔

أَفَادَةُ الرَّجُلِ عِلْمًا أَوْ مَالًا: ناکدہ پہنچانا۔

فقیح: پیک۔ اپنی۔ ہر کارہ۔ خادم۔

فقیح: پیک۔ اپنی۔ ہر کارہ۔ خادم۔

.....الرجل: مارڈالنا.....الجوز: وزن
کرنا۔ (.....واستفاد) منه علماً او ملاماً
: حاصل کرنا۔

تفایذ. القوم بالمال: ہر ایک کا دوسرے کو
فائدہ پہنچانا۔

تفید الرجل: ناز سے چلنا۔

الفید: مص۔ زعفران کی پتی۔

الفائدة: ادھار مال دے کر یا قرض دے کر
اپنے مال کے عوض فیصدی کے حساب سے

قرض خواہ مقروض سے کچھ مال لے۔

الفائدة البسيطة: حاصل شدہ نفع جو اصل

مال میں ملایا جائے۔ الفائدة المربحة:

سالانہ ششماہی یا ساماہی مدت کے بعد

حاصل ہونے والا نفع جو اصل مال ضم کر دیا

جائے۔

الفائدة: زیادتی جو انسان کو حاصل ہو۔ علم یا

مال وغیرہ سے انسان جو حاصل کرے ج

فوائد۔

الفیاد: نزلو (..... والفیاد) ناز سے چلنے

والا۔ کہا جاتا ہے "هو يمشي على

الأرض قياداً مياذاً: وہ زمین پر ناز سے

آکرتا ہوا چلتا ہے۔

الفيروز والفيروز والفيروز والفيروز

والفيروز والفيروز والفيروز والفيروز

والفيروز والفيروز والفيروز والفيروز

والفيروز والفيروز والفيروز والفيروز

والفيروز والفيروز والفيروز والفيروز

والفيروز والفيروز والفيروز والفيروز

والفيروز والفيروز والفيروز والفيروز

والفيروز والفيروز والفيروز والفيروز

والفيروز والفيروز والفيروز والفيروز

والفيروز والفيروز والفيروز والفيروز

والفيروز والفيروز والفيروز والفيروز

فاض يفيض فيضاً. في الأرض: جانا۔
منه: بہت جانا اور کہا جاتا ہے "ما فيض
أفعل" یعنی ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ فاض: جدا
ہونا۔

الفاض: الكلام: ظاہر کرنا۔ افاضت يده:

انگلیوں کا کسی چیز کے پکڑنے سے عاجز

رہنا۔ کہا جاتا ہے "الك عنك

(مفيض) تمہارے لئے کوئی ہتھی کی جگہ

نہیں۔

فاض يفيض فيضاً وفيضاً وفيضاً

وفيضاً وفيضاً وفيضاً وفيضاً

وفيضاً وفيضاً وفيضاً وفيضاً

وفيضاً وفيضاً وفيضاً وفيضاً

وفيضاً وفيضاً وفيضاً وفيضاً

وفيضاً وفيضاً وفيضاً وفيضاً

وفيضاً وفيضاً وفيضاً وفيضاً

وفيضاً وفيضاً وفيضاً وفيضاً

وفيضاً وفيضاً وفيضاً وفيضاً

وفيضاً وفيضاً وفيضاً وفيضاً

وفيضاً وفيضاً وفيضاً وفيضاً

وفيضاً وفيضاً وفيضاً وفيضاً

وفيضاً وفيضاً وفيضاً وفيضاً

وفيضاً وفيضاً وفيضاً وفيضاً

وفيضاً وفيضاً وفيضاً وفيضاً

وفيضاً وفيضاً وفيضاً وفيضاً

وفيضاً وفيضاً وفيضاً وفيضاً

وفيضاً وفيضاً وفيضاً وفيضاً

وفيضاً وفيضاً وفيضاً وفيضاً

وفيضاً وفيضاً وفيضاً وفيضاً

وفيضاً وفيضاً وفيضاً وفيضاً

وفيضاً وفيضاً وفيضاً وفيضاً

وفيضاً وفيضاً وفيضاً وفيضاً

في فيض فلان فلان کے جنازہ میں گئے۔
الفيض من الخيل: بہت تیز رو گھوڑا۔ ج

فيض و أفاض: کہا جاتا ہے "ماء

فيض" بہت پانی "وأعطاه غيضاً من

فيض" اس نے بہت میں سے تھوڑا دیا۔

رجل فيض: ففاض وحی آدمی۔

القياض: بہت پانی والا۔ رجل

قياض: بہت جو درخشش کرنے والا۔

حديث (مفاض ومفيض ومستفاض)

فيه: پھیلی ہوئی بات۔

ذرع (مفاض) كشاده زره۔

فاط يفيض فيضاً وفيضاً وفيضاً

وفيضاً وفيضاً وفيضاً وفيضاً

وفيضاً وفيضاً وفيضاً وفيضاً

وفيضاً وفيضاً وفيضاً وفيضاً

وفيضاً وفيضاً وفيضاً وفيضاً

وفيضاً وفيضاً وفيضاً وفيضاً

وفيضاً وفيضاً وفيضاً وفيضاً

وفيضاً وفيضاً وفيضاً وفيضاً

وفيضاً وفيضاً وفيضاً وفيضاً

وفيضاً وفيضاً وفيضاً وفيضاً

وفيضاً وفيضاً وفيضاً وفيضاً

وفيضاً وفيضاً وفيضاً وفيضاً

وفيضاً وفيضاً وفيضاً وفيضاً

وفيضاً وفيضاً وفيضاً وفيضاً

وفيضاً وفيضاً وفيضاً وفيضاً

وفيضاً وفيضاً وفيضاً وفيضاً

وفيضاً وفيضاً وفيضاً وفيضاً

وفيضاً وفيضاً وفيضاً وفيضاً

وفيضاً وفيضاً وفيضاً وفيضاً

وفيضاً وفيضاً وفيضاً وفيضاً

وفيضاً وفيضاً وفيضاً وفيضاً

..... محل سائل جاری ہوتا۔ کہا جاتا ہے

"فاضت عينه" یعنی آنسو بہنے لگا۔ فاض

الجرح: پھیل جانا..... الشئ: بہت ہونا

(..... فيضاً وفيضاً) مرنا۔ فاضت نفسه

: روح لگنا (فيضاً) الاناء: برتن کا بھر جانا

..... صذره بالبر: بھید کو چھپانے سنا۔

أفاض إفاضة. اللمع: آنسو بہانا.....

الماء: پانی گرانا..... الاناء: برتن کو لبریز کر

دینا۔

..... القوم من المكان: متفرق ومنتشر ہو

جانا۔

..... القوم في الحديث: گفتگو میں مشغول

ہونا۔

القوم على الرجل: غالب ہونا.....

بالشئ: پھینکنا، دفع کرنا اور کہا جاتا ہے

"ما أفاض بكلمة" یعنی کچھ نہیں بولا۔

تفيض: الجفن: آنسو بہانا۔

استفاض: استفاضة: الخبر: پھیلانا۔

المكان: كشاده ہونا..... الوادي

شجراً: وسیع ہونا اور درخت بہت ہونا.....

القوم في الحديث: مشغول ہونا.....

الرجل: پانی بہانے کو کہنا۔ القдах

وبالقдах: تیر سے جو اٹھتا۔

الفيض: مص۔ موت۔ کہا جاتا ہے "ذهبتنا

أفاض الله: موت دینا۔ کہا جاتا ہے ضربته

حتى أفضت نفسه: میں نے اس کو مارا

یہاں تک کہ قتل کر دیا۔

القيظ: مص۔ موت۔ کہا جاتا ہے "حان

قيظه" اس کی موت آگئی۔

الفيف: جنگل جس میں پانی نہ ہو۔ ہوار جگہ

ج أفياف وفيوف: الفيف من الأرض:

مختلف ہواؤں والی زمین۔

الفيفي والفيفاء والفيفاء بمعنى الفيف ج

فياف. الفيفاء: چیکنا پتھر۔

فاق يقيق فيفا: جان دینا۔ مرنا۔

أقبق أبقاقا. الشاعر: بمعنی اقلق۔

القيق: مرغی کی آواز۔

قال يقيل فيلة وفيولقو فيولقو لقرأته: کمزور

اور غلط ہونا۔ صف فائیل الرأى وقاله وفيله

وفيله. وقال الرجل: ہاتھی جیسا ہونا۔

قيل رأيه: غلطی پکڑنا۔ کمزور سمجھنا..... الرجل

في رأيه: صواب کو نہ پہنچنا۔

تقيل: رأيه: کمزور ہونا..... النبات: نباتات

کا بڑھنا..... النبات: جوانی و چلنا۔

..... الرجل: ہونا ہونا۔

الفال: بھگون۔ فال کا مخفف۔

الفيل: ہاتھی۔ ج أقبال وفيلة

فيول. مؤنث فيلة الفيل: مرد و فرمایہ۔

ذاء الفیل ایک بیماری ہے جس میں پاؤں سوچ جاتا ہے۔ نمل پا۔
 الفیال: مہاوت ہاتھی بان۔ ج فیلۃ۔
 فائل الزای وفائلہ وفیلہ: کمزور رائے والا۔
 قبل اللحم: بہت گوشت والا۔ قبل
 الزای: کمزور رائے والا۔
 الفیالۃ: رائے کی کمزوری۔
 السفیولاء: ہاتھی کے بیجے۔
 الفیلجۃ: ریشم کے کیڑے کا کو یا۔ ج

فیالج۔
 الفیلق: بڑا شکر۔ بڑا آدمی۔ ج فیالق۔
 الفیلم: بزدل۔ کشادہ منہ کا کنواں۔ کنگھا۔
 وسر خون کے نیچے بچھانے کا چیز۔ تچھت کی
 کثرت ج فیالم (..... والفیلمانی) بڑے
 ذیل ڈول کا مرد۔
 الفیلبریۃ: جنگلی زیتون جیسا ایک درخت
 جس کے پتے انڈے کی شکل کے ہوتے ہیں
 اور اس کے پھل انگوری ہوتے ہیں زیب و
 زینت کے لئے بویا جاتا ہے۔

فان یفین فینا: آنا۔

الفینۃ: وقت۔

الفینان: خوبصورت لمبے بالوں والا مونث
 فینانۃ۔

تفیہق: فی الکلام: بہت پھیلا کر گفتگو کرتا۔

فی مشیہ: تازے چلنا۔ علیہ

کذا: بڑا بننا۔

الفیہق: ہر کشادہ جڑوج فیہق۔

الفیہک: بے وقوف عورت۔



ق: القفاف: بنیادی حروف میں سے
ایکسواں حرف ہے لہو یہ حروف میں سے ہے
یعنی حلق کے کوا سے نکلنے والا حرف۔

قَاب (ف) قَابَا الطَعَام: کھانا..... المَاء:
پانی پینا۔

قَيْب (س) قَابًا قَابًا: مِنَ الشَّرَابِ: زیادہ
پینا۔

قَاب يَقَاب قَابًا: کھانا پینا۔

القَوَاب والقَوَائِي: مِنَ الْإِنْبِيَاءِ: بہت پانی کا
برتن۔

القَوُوب والمِقَاب: بہت پینے والا۔

القَفَاء: کوئے کی کاٹیں کا ٹیس۔

القَنْصَنِي: انڈے کی سفیدی۔ انڈے کا
باریک چمکلا۔

قَامِي (ف) قَائِمًا: الرِّجْلُ: جن ٹھہم کا اقرار
کرنا۔ دشمن کا مطیع ہونا۔

قَب (ن ش) قَبَا: النَّبَات: نباتات کا خشک
ہونا..... الشَّيْ: اطراف کو جمع کرنا۔

..... القَبَّة: گنبد بنانا۔

قَب (ن ش) قَبَا: يَدْفُلَان: ہاتھ کا ٹٹا۔

قَب (ض) قَبُونًا: اللَّحْمُ وَنَحْوُهُ: گوشت
وغیرہ خشک ہونا..... السُّؤْمُ: جھگڑے میں
آواز بلند کرنا۔

قَب (ض) قَبًا وَقَبِينًا: الْأَسَدُ أَوْ الْفَخْلُ:
دانت پینا۔ قَت طَيَّ النَّوْب: کپڑے کی تہ
کو پیننا۔

قَب وَقَب (س) قَبَا: الخَضْرَاءُ أَوْ
البَطْنُ: کمر کا باریک یا پیٹ کا ڈبلا ہونا۔

قَب الرِّجْلُ: گنبد بنانا..... البَيْتُ: گھر کو

گنبد دار بنانا..... الصَّمْرُ: جھور کا خشک ہونا۔
الشَّيْ: اطراف کو جمع کرنا۔

تَقَبَّبَ: القَبَّة: گنبد میں داخل ہونا۔

اِقْتَبَّ: يَذُو: ہاتھ کا ٹٹا۔

السَّقْبُ: مِصْرُ: جوان گھوڑا۔ سردار قوم۔
چرخہ کا سوراخ۔ قمیص کے گریبان میں
لگانے کی دھجی۔ غلہ کا ایک پیمانہ۔

السَّقْبُ وَالقَبُّ: سردار قوم۔ القَبُّ: دونوں
سریٹوں کے درمیان پیچھے کی اُبھری ہوئی
بڈی۔

القَبَانُ: غلبہ کا ایک پیمانہ۔

السَّقْبُ: مِصْرُ: کمر کا باریک ہونا۔ پیٹ کا
پٹلا ہونا۔

السَّقْبَةُ: گنبد۔ قَبَاب وَقَبَب: قَبَّة
الاسلام: بصرہ۔ قبة الشهادة عند اليهود:
ایک خیر تھا جس میں یہود تابوت عہد کو
چھپاتے تھے اور اُس کو قبة الزمان: بھی کہتے
تھے القَبَّة الخَضْرَاءُ أَوْ الزَّرْقَاءُ: گنبد
آسمان۔

السَّقِيَّةُ: اوجھ کا وہ حصہ جس میں پرت پرت
ہوتا ہے۔

القَبَاتُ: نا۔ آئندہ تیسرا سال کہا جاتا ہے
انک لانتسج العام الحاضر ولا القابِل
ولا القاب: تُوْنُوْ اَمْسَال کا میاب ہوگا نہ
آئندہ سال نہ تیسرے سال۔

القَابِيَّةُ: قَاب: کا مَوْنُث: پادل کی گرج۔
بارش کا قطرہ۔

القَبَاب: اسم مبالغہ۔ شیر۔

القَبَاب: مِنَ السُّيُوفِ وَنَحْوِهَا: شمشیر

بران۔

..... مِنَ الْاَثْوَفِ: موٹی تاک۔

الاقْبُ: مِنَ الخَيْلِ: باریک کمر۔ پتلے پیٹ
والا گھوڑا۔ مَوْنُث قَبَاء ج قَبَّ:

القَبِي: لگا تا روز سے رکھنے کی وجہ سے ڈبلے
پیٹ والا۔

القَبِي: خشک نباتات۔

الاقْبُ وَالْمُقَبَّبُ وَالْمَقْبُوبُ: ڈبلا۔

السَّقْبَجُ: پیکور۔ بگ کا معرب ہے۔ واحد
(قبحة) مذکر مَوْنُث پر اطلاق ہوتا ہے۔

بمخلاف يعقوب کے کہ اس کا استعمال صرف
مذکر ہی کے لئے ہوتا ہے۔

القَبَابُ جُورُ أَوْ الابنَابُ جُورُ: بروشنی روکنے کے
لئے کھڑکیوں پر گرل لگانا۔

قَبِح (ك) قَبِيحًا وَقَبِيحًا وَقَبَاخَةٌ وَقَبَاخَا
وَقَبُوخًا وَقَبُوخَةٌ: بُرَا ہونا۔ بد صورت ہونا۔

قَبِيحَةٌ (ف) قَبِيحًا وَقَبُوخًا وَقَبِيحَةٌ: اللّٰهُ
عَنِ الخَيْرِ: افعال خیر سے محروم کر دینا۔

صفت مفعولی مَقْبُوخٌ: اور کہا جاتا ہے
"قَبَحْتُ لَهُ وَجْهَهُ" یعنی میں نے اس کے
لئے قَبَحْتُ اللّٰهَ: کہا قَبَحْتُ البَيْضَةَ: انڈا

توڑنا۔ قَبَحَ عَلَيْهِ فَعَلَهُ: بُرَا ئی ظاہر کرنا۔
قَبَحَ لَهُ وَجْهَهُ: کسی کے عمل کے خلاف
ناراضی کا اظہار کرنا۔

قَابَحَهُ فَمَانَحَهُ: آپس میں گالی گلوچ کرنا۔
اَقْبَحَ: الرِّجْلُ: بُرَا فعل کرنا۔

اِسْتَقْبَحَ: الشَّيْ: بُرَا اَجْمَعًا۔

القَبْحُ: مِصْرُ: قول فعل یا صورت کی بُرَا ئی۔
القَبِيحُ: بُرَا: ج قَبَحَ وَقَبِيحًا وَقَبَاخِي.

دینا..... بَطْنُهُ: قبض ہونا۔ اِنْقَبَضَ الشَّيْءُ: ملنا۔ مَقْبُضٌ ہونا۔ سَمْنَا۔
 قَبْضٌ. السَّرْبُضُ: قریب المرگ ہونا۔ مرنا۔
 قَبْضٌ. الشَّيْءُ: جمع کرنا۔ سَمْنَا۔ سَمْنَا۔ سَمْنَا۔ کہا جاتا ہے "قَبْضٌ وَجْهَهُ فَتَقْبُضُ" اس نے اپنا منہ بگاڑا جس وہ بگڑ گیا۔ "وَقَبْضٌ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ" اس نے اپنی آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر شکن ڈال لیا۔ قَبْضُ السَّمَالِ فَلَاتَا: مال کسی کے قبضہ میں دینا۔ مال پر کسی کا قبضہ کرانا۔
 قَابِضُهُ مَقَابِضُهُ: ہاتھ میں ہاتھ دینا۔
 اِقْبَضُ. السَّيْفُ: تلوار کا قبضہ بنانا..... فَلَاتَا السَّمَاعُ: سامان پر قبضہ کرنے کے لئے براہیختہ کرنا۔
 تَقْبُضُ: جمع ہونا..... الْجِلْدُ فِي النَّارِ: کھال سکر جانا..... السَّرْبُجُلُ عَنِ الْأَمْرِ: نفرت کرنا۔
 إِلَيْهِ كَوْدَا..... عَلَى الْأَمْرِ: توقف کرنا۔
 تَقَابِضُ. الْمُتَابِعَانِ: بائع اور مشتری کا بیعہ اور ضمن پر قبضہ کرنا۔
 الْقَبْضُ: مَصٌّ۔ تیز ہانکنا۔ کہا جاتا ہے "صَارَ السَّمَالُ فِي قَبْضِهِ" مال اس کی ملکیت میں ہو گیا۔
 الْقَبْضُ: قبضہ کیا ہوا مال۔ جلدی۔ تقسیم سے پہلے غنیمت کا مال۔
 الْقَبْضُ: علم عروض کی اصطلاح میں پانچواں حرف ساکن کو حذف کرنا جیسے فَعُولُنَّ سے فَعُولٌ۔ حذف شدہ کو مَقْبُوضٌ بولتے ہیں۔
 الْقَبْضَةُ: قَبْضٌ: کا اسمِ مرۃ۔ موت کہا جاتا ہے "صَارَ السَّمَالُ فِي قَبْضَتِهِ" مال اس کی ملکیت میں ہو گیا۔ قَبْضَةُ السَّيْفِ: تلوار کا قبضہ۔
 الْقَبْضَةُ وَالْقَبْضَةُ: متبوعہ شئی سے شئی۔
 الْقَبْضَةُ: تنظّم۔ چرواہا۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ قَبْضَةٌ رُقْضَةٌ" قبضہ کرنے والا اور جلدی چھوڑ دینے والا مرد۔

الْقَبَاضُ وَالْقَبَاضَةُ: سکر جانا۔ جلدی۔
 الْقَبَاضُ وَالْقَبَاضَةُ: بہت سخت قبضہ کرنے والا۔ تیز ہانکنے والا۔
 الْقَبَاضُ: فَا..... مِنَ الطَّعَامِ: زُيَّانِ پکڑنے والی خوراک..... مِنَ الْأَدْوِيَةِ: قبض کرنے والی دوا۔ تیز ہانکنے والا۔ قَبَاضُ الْأَزْوَاجِ: حضرت عزرائیل علیہ السلام۔
 الْقَبِيضُ: سکر ہوا۔ تیز۔ عقل مند۔ کاربگر جو اپنے کام پر متوجہ رہے۔
 الْمَقْبُضُ وَالْمَقْبُضُ وَالْمَقْبُضُ وَالْمَقْبُضَةُ وَالْمَقْبُضَةُ: تلوار کا قبضہ ج مقابض۔
 قَبِطٌ (ن) قَبَطَا. الشَّيْءُ: ہاتھ سے جمع کرنا۔ ملانا۔
 قَبَطٌ وَجْهَهُ: ترش روی کرنا۔ منہ بگاڑنا۔
 الْقَبِطُ: مصر میں نھرائیوں کی ایک جماعت واحد قَبِطِيٌّ جِ اَقْبَاطُ الْقَبِطِيَّةُ وَالْقَبِطِيَّةُ: کتان کا کپڑا جو قبیلہ کی طرف منسوب ہے۔ جِ الْقَبَاطِيٌّ وَالْقَبَاطِيٌّ. الْقَبَا وَالْقَبِيطُ وَالْقَبِيطِيُّ وَالْقَبِطَاءُ: ایک قسم کی مٹھائی۔ ریوزی۔
 قَبِيعٌ (ف) قَبِوعَا. الْقَبِيعَةُ: سبکی کا اپنی کھال میں سر چھپانا..... الرَّجُلُ فِي قَبِيعِهِ: گریبان میں سر ڈالنا..... رَأْسُهُ: سر کو کپڑے میں داخل کرنا..... فِي الْأَرْضِ: جانا..... قَبِيعَا الْجَوَالِقِ: گون کے کنارے موڑنا..... قَبِيعَا وَقَبِوعَا) عَنْ أَصْحَابِهِ: تخلف کرنا..... النجم: ستارے کا ظاہر ہو کر چھپ جانا..... الرَّجُلُ: عاجز ہونا۔ مغلوب ہونا..... الْمَرْأَةُ: عورت کا چھپنا۔ (قَبِيعَا وَقَبِيعَا) وَالْقَبِيعَةُ: سور کا غرانا۔ السَّيْفُ: ہاتھی کا چنگھاڑنا..... (وَأَقْبَع) السَّمَزَادَةُ: مشک کے منہ کو منہ میں ڈال کر پینا۔
 الْقَبِيعُ: بگل۔
 الْقَبِيعُ وَالْقَبَاعُ: سبکی۔ ایک قسم کا دریائی

جانور۔
 الْقَبَاعُ: بے وقوف مرد ایک بڑا پیمانہ۔
 الْقَبْعَةُ: ایک چھوٹا سا پرندہ۔ کہا جاتا ہے "يَا ابْنَ قَبْعَةَ وَيَا ابْنَ قَابِعَاءَ"۔ یعنی اے بے وقوف۔
 "امْرَأَةٌ قَبْعَةٌ طَلْعَةٌ" کبھی چھینے والی کبھی ظاہر ہونے والی عورت۔
 الْقَبْعَةُ: بچوں کی ایک قسم کی ٹوپی۔
 الْقَبَاعُ: بزدل سوڑ۔
 الْقَبْعَةُ: چھوٹا پرندہ جو چوہوں کی بل کے پاس ہوتا ہے جب خوفزدہ ہو تو بل میں داخل ہو جاتا ہے۔
 الْقَبَاعِيُّ: بڑے سر کا مرد۔
 الْقَبِيعَةُ: مِنَ السَّيْفِ: تلوار کے قبضہ پر چاندی یا لوہے کی گرہ۔
 الْقَبِيعَةُ وَالْقَبِيعَةُ: سوری کی ناک کا سوراخ۔
 السَّقَابِعُ: گھوڑ دوڑ میں پیچھے رہے ہوئے گھوڑے۔
 الْقَبْعُفْرِيُّ وَالْقَبْعُفْرُ: بڑا۔ بڑا اونٹ جِ قَبَاعِثُ. الْقَبْعُفْرِيُّ: بڑے قدم کا مرد۔ بڑے کھرا کا اونٹ۔ مَوْنُثُ قَبْعُفْرَاةُ. قَبْعَبُ قَبْعَبَةٌ. الْفَحْلُ: بڑا بڑا..... الرَّجُلُ: بے وقوف ہونا۔
 الْقَبْعَبُ: پیٹ۔
 الْقَبْعَبَةُ: مَصٌّ۔ گھوڑے کے پیٹ کی آواز۔
 نر جانور کے دانت کی آواز۔
 الْقَبْعَبُ: دریائی مچھلی۔
 الْقَبْعَابُ: کھڑاؤں۔ جِ قَبَاعِيبُ. الْقَبْعَابُ وَالْقَبَاعِبُ: بہت بولنے والا۔ بک بک کرنے والا۔ چھوٹا۔ سخت آدمی
 الْقَبَاعِبُ: آئندہ تیسرا سال کہا جاتا ہے "إِنَّكَ لَا تُفْلِحُ الْعَامَ وَلَا الْقَابِلَ وَلَا الْقَبَائِبُ" یعنی نہ تو تم اس سال فلاح پاؤ گے نہ آئندہ سال نہ تیسرے سال۔
 قَبَلٌ (س) قَبُولًا وَقَبُولًا. الشَّيْءُ: لینا۔
 قَبُولٌ كَرْنَا..... الْكَلَامَ: تصدیق کرنا۔

قبِلْتُ (ن) قَبِلًا وَقَبُولًا. رُبِحَ الْقَبُولُ: پروائی ہوا چلنا۔

قَبِلَ (ن) قَبِلًا. عَلِيٌّ الشَّيْءُ مَشْغُولٌ بَوْنًا اور لازم ہونا۔ الْمَسْكَانُ: متوجہ ہونا کہا جاتا ہے "قَبِلْتُ الْمَسَابِيحَ الْوَادِيَّ" جانور وادی کی جانب متوجہ ہوئے۔

قَبِلَ (ف) قَبِلًا الْيَوْمَ: دن کا قریب ہونا۔

قَبِلْتُ (س) قِبَالَةَ الْمَرْأَةِ: عورت کا دائی جنائی ہونا۔ الْقِبَالَةُ الْوَالِدَةُ: دایہ گری کرتا۔

قَبِلَ (س) وَقَبِلَ (ن) قِبَالَةَ بَهْ كَقَبِلَ وَضَامِنٌ بَوْنًا۔

قَبِلَ (ن) قَبِلًا وَقَبِلَ (س) قَبِلًا: آنکھوں میں کچی والا ہونا۔ جھٹکی نظر والا ہونا۔

قَبِلَ الْقَوْمَ: پروائی ہوا لگنا۔

قَبِلْتَهُ: بوسہ دینا۔ قَبِلَ الْعَامِلَ الْعَمَلُ: ضامن لینا اور ضمان کو (القَسَالَةُ) کہتے ہیں۔ قَبِلْتَهُ الشَّحْمِيُّ: بخار کی وجہ سے ہونٹوں پر دانے نکل آنا۔

قَابِلَةٌ: سامنے ہونا۔ قَابِلُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ: مقابلہ کے لئے دو چیزوں کو آمنے سامنے کرنا۔

أَقْبَلْتُ الْيَوْمَ: دن کا قریب ہونا۔ أَقْبَلْتُ الْأَرْضَ بِالسَّنَاتِ: زمین میں نباتات کا بڑھنا۔ بَشْرَتٌ بَوْنًا: أَقْبَلُ عَلَيْهِ: متوجہ ہونا۔ إِلَيْهِ: آنا۔ عَلِيٌّ الشَّيْءِ: شروع کرنا اور لازم ہونا۔ الْقَوْمَ: پروائی ہوا لگنا۔

فَلَانًا الشَّيْءُ: آگے کرنا کہا جاتا ہے "أَقْبَلْتُ زَيْنَةً صَبْرَةً وَأَذْبَرْتُهُ أُخْرَى" یعنی پلٹے میں زینہ کو بھی آگے کبھی پیچھے کیا۔ "أَذْهَبَ فَمَا قَبِلَهُ الطَّرِيقُ" اس کو لے جاؤ اور راستہ تلاء اور سامنے نہرو۔

نَقَبَلَهُ: لینا۔ نَقَبَلَ الْعَمَلُ: کام کو لازم کرنا۔

السَّنَةُ ذُعَاءٌ: ذُعَا قَبُولٌ كَرْتًا۔ أَيْسَاءٌ: باپ کے مشابہ ہونا۔ نَقَبَلْتَهُ السَّعَادَةَ: نَيْك

بِحَقِّي ظَاهِرٌ بَوْنًا۔

تَقَابَلُ: الرَّجُلَانُ: ایک دوسرے کے مقابل ہونا۔

أَقْبَلُ الْكَلَامَ: فِي الْبَدْيِ يَهْ كَبِنَا..... الْأَمْرُ: کام از سر نو کرنا۔ الرَّجُلُ: بے وقوفی کے بعد متل مند ہونا۔

أَقْبَلْتُ وَأَقْبَلْتُ عَيْنَهُ أَقْبِلًا لِأَوْاقِبِلَالًا: نگاہ کا جھینکا ہونا۔

إِسْتَقْبَلُ: الشَّيْءُ: سامنے ہونا۔ الرَّجُلُ: توجہ کرنا۔ سامنا کرنا۔ مقابلہ کرنا۔

قَبِلَ: پیلے۔ آگے اور یہ طرف زمان ہے کبھی معرب ہوتا ہے۔ جیسے مَاتِ الْخَلِيفَةُ وَمَاتِ الْوَزِيرُ قَبْلَهُ وَمِنْ قَبْلِهِ: کبھی مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے۔ اگر نیت میں ہو تو مبنی علی الضم جیسے مَاتِ الْخَلِيفَةُ وَمَاتِ الْوَزِيرُ قَبْلُ وَمِنْ قَبْلُ: اور اگر مضاف الیہ نہ لفظوں میں ہونے نیت میں تو معرب جیسے مَاتِ الْخَلِيفَةُ وَمَاتِ الْوَزِيرُ قَبْلًا وَمِنْ قَبْلُ: قَبِيلُ: قبیل کی تصریح۔ کہا جاتا ہے "حِمْيَرٌ فَلَانٌ قَبِيلُ الْعَصْبَرِ" یعنی فلاں عمر سے کچھ پہلے آیا۔

الْقَبِيلُ وَالْقَبِيلُ: اگلا حصہ۔ مَنِ الزَّمَانُ: ابتدائی زمانہ۔ مَنِ الْجَبَلُ: دامن کوہ جہ اقبال: کہا جاتا ہے اَقْبَلُ قَبْلَهُ: یعنی اس نے اُس کا قصد کیا "زَيْنَةُ وَقَبْلًا وَقَبْلًا وَقَبْلًا" اور قبلا و قبلا و قبلا میں نے اس کو ظاہر طور پر سامنے دیکھا۔

الْقَبِيلُ: مِمَّنْ: سامنے کی مرتفع زمین۔ واضح راستہ۔ بکری کے سینگوں کا چہرے پر ہونا۔ کہا جاتا ہے "حَسْبَا اللَّهُ قَبْلَهُ" اللہ بانی رکھے اس چیز کو جو اس سے پہلے نظر آئے۔ الْقَبِيلُ: دایہ کی بچہ جنائے کی لطف تدبیر۔ ہر چیز جو پہلے نظر آئے۔ کلام کی برجستگی۔ ہاتھی دانت وغیرہ کا گول تعویذ جو عورت اور گھوڑے کے سینہ پر لٹکا یا جاتا ہے وَالْقَبِيلُ فِي الْعَيْنِ: آنکھ کی سیاہی کا ناک کی طرف جھکنا۔ طہی الْعَيْنَيْنِ: بہر آنکھ کی نگاہ کا ایک دوسرے کی

طرف جھکنا۔

الْقَبِيلُ: طاق۔ قدرت جیسے "مَالِي بِهِ قَبْلُ" مجھے اس کی طاقت نہیں کہا جاتا ہے "الْبِي قَبِيلُ فَلَانٌ ذِينٌ" میرا فلاں کے پاس قریش ہے "وَأَتَانِي مِنْ قَبْلِهِ" اس کے پاس سے میرے پاس آیا۔ اس کی طرف سے میرے پاس آیا۔

الْقَبِيلَةُ: قَبِيلٌ: کا اسم نوع۔ جہت اور اسی سے ہے قَبِيلَةُ الْمُصْطَلَى: اس جہت کے لئے جدھر نماز پڑھتا ہے کعبہ۔ جس چیز کا سامنا کیا جائے کہا جاتا ہے "مَالَهُ فِي هَذَا الْأَمْرِ قَبِيلَةٌ وَلَا ذِبْرَةٌ" اس کے لئے اس معاملہ میں آگے پیچھے نہیں یعنی نہیں جانتا کہ کیا کرے۔ "وَأَجْعَلُوا بَيْنَكُمْ قَبِيلَةً" اپنے مکانوں کو آمنے سامنے کرو۔

الْقَبِيلَةُ: بوسہ۔ کفالت۔ ضمان۔ جہ قَبِيلُ الْقَبِيلَةِ: ایک قسم کا مہرہ جس کو جا دو گرتی استعمال کرتی ہے اور اسی سے جا دو گرتی ہے جہ قَبِيلُ۔

الْقَبِيلَةُ بِسُكُونِ الْبَاءِ: اور الْقَبِيلَةُ بِضَمِّ الْقَافِ وَسُكُونِ الْبَاءِ: بھی اسی معنی میں ہے۔

الْقَبِيلَانُ: مِنَ النُّعْلِ: قسم۔ کہا جاتا ہے رَجُلٌ مُنْقَطِعُ الْقَبِيلَانِ: مرد بدرائے۔

الْقَبَالَةُ: مِمَّنْ: ضمانت۔ کفالت۔ کہا جاتا ہے جَلَسَ (قَبَالَتَهُ) یعنی وہ اس کے سامنے بیٹھا۔

الْقَبُولُ: مِمَّنْ: اچھی بیعت۔ بادشاہ۔ دائی جنائی۔ عاقبت اور نعمت وغیرہ کا آنا۔

الْقَبِيلُ: ضَامِنٌ: کفیل۔ شوہر۔ تین یا زائد کی جماعت۔ جہ قَبِيلُ وَقَبَالَةُ: الْقَبِيلُ: خُدا کی اطاعت (ذبیور: خدا کی نافرمانی) الْقَبِيلُ مِنَ النِّسَاءِ: دائی جنائی۔ کہا جاتا ہے "مَا يَعْرِفُ قَبِيلًا مِنْ دَبْرٍ" وہ آنے جانے والے کو پہچانتا نہیں "وَمِنْ قَبِيلِ ذَلِكَ" اس کی جہت سے اور کہا جاتا ہے "زَيْنَةُ قَبِيلًا" میں نے اس کو سامنے سے ظاہر طور پر دیکھا۔

الْقَبِيلَةُ: ایک باپ کے بیٹے۔ کنو میں کے من

کا پتھر۔ چمڑے کا ہر ایک ٹکڑا۔ جِ قَبَائِل۔
قَبَائِل الرِّاسِ: سر کی بڑی کے ٹکڑے بعض
بعض سے ملے ہوئے۔ قَبَائِل الطَّيْرِ:
پرندوں کی تئیں قبائل الثَّوْبِ: کپڑے کے
ٹکڑے۔

الاستقبال: ہم سے مِنَ الزَّمَانِ: حال کے بعد
آنے والا زمانہ۔

الاقبل: وہ شخص جس کی آنکھوں میں ہمیں
پن ہو۔ "زَجُلٌ اَقْبَلُ" تاک کی جانب دیکھنے
والا مرد۔ مَوْتٌ قَبْلَاءَ: مَ قَبْلُ۔

القَبَائِلُ: قا۔ آئندہ سال۔ آمادہ قبول۔
مِثْرًا۔ مَ قَبْلَةَ۔

القَابِلِيَّةُ: قبول اور تاثر کی آمادگی کی حالت۔
القَابِلَةُ: قابل کا مَوْتٌ۔ آنے والی رات۔

وَالِي جَنَائِي۔ جِ قَوَائِلُ وَقَابِلَانَتْ. قَوَائِلُ
الْأَمْرِ: اوائل امر۔

المُقَابِلُ: مِثْع۔ الزَّجْلُ الْمُقَابِلُ: ماں باپ
کی طرف سے شریف۔ کہا جاتا ہے "زَجْلُ
مُقَابِلٌ مُدَابِرٌ" نجیب الطرفین مرد۔

المُقْبِلُ: مِثْع۔ مقبول۔ مِنَ الشَّيْبِ: پیوند
لگا ہوا کپڑا۔ زَجْلٌ (مُقْتَبِلٌ) الشَّيْبِ: مرد
نوجوان جس میں بڑھاپے کے آثار ظاہر نہ
ہوں۔

المُسْتَقْبِلُ: فا۔ (المُسْتَقْبِلُ
والمُسْتَقْبِلُ) مِنَ الزَّمَانِ: آئندہ زمانہ۔

قَبِنٌ (ض) قَبُونًا. الزَّجْلُ: ملک میں جانا۔
قَبِنُ: الشَّيْ: قَبَان سے تولنا (دیکھئے قَبَان)

أَقْبِنُ: دشمن سے شکست کھانا۔ بے خوف تیز
دوڑنا۔

القَبْنَةُ: ضروریات میں بھاگ دوڑ۔
القَبَانُ: بھاری اشیاء کے تولنے کا ایک آلہ
(دُخِلُ)

القَبِينُ: اپنے کاموں میں بھاگ دوڑ کرنے
والا۔ تیز رو۔

قَبَا يَقْبُو قَبْوًا. البناء: عمارت کو بلند کرنا یا
گنبد نما بنانا۔ الزَّعْفَرَانُ: زعفران توڑنا

اور جمع کرنا۔ الشَّيْ: کسی چیز کو اٹکیوں

سے جمع کرنا (..... قَبَا) الشَّيْ: کسی چیز کو
کمان جیسا کرنا۔ الخَرْفُ: ملانا۔

قَبَى تَقْبِيَةَ المَتَاعِ: سامان مہیا کرنا۔
الثَّوْبِ: کپڑے کو قبانا نا۔ غَلِي فُلَانٌ: غلیم
کرنا۔

تَقْبَى: الشَّيْ: گنبد جیسا ہونا۔ القَبَاءُ: قبا
پہننا۔ الرُّجُلُ: پیچھے سے آنا۔

إِنْقَبَى: غَنَةً: پوشیدہ ہونا۔
إِنْقَبَى: المَتَاعِ: سامان مہیا کرنا۔ آراستہ
کرنا۔

السَّقْبُو: سجھی ہوئی عمارت۔ گنبد۔ قَبْدُ: گول
گنبد وار کمرہ۔

السَّقْبُونَةُ: قبا کا اسم مرثیہ۔ دونوں ہونٹوں کا
ملانا۔

القَبَاءُ: ایک کپڑا ہے جو کپڑوں کے اوپر پہنا
جاتا ہے۔ مَ قَبِيَّةُ۔

القَبَاءُ: مقدار۔ کہا جاتا ہے "بَيْنَهُمَا قَبَاءُ
قَوْسَيْنِ وَقَبَابِ قَوْسَيْنِ" یعنی دو کمان کے
مقدار۔ کنایہ قریب سے۔

السَّقْبَةُ: اوجھ کا وہ حصہ جس میں پرت پرت
ہوتا ہے۔ تاوا و مخدوفہ کے بدلہ میں ہے۔

المَقْبِيُّ: مِثْع۔ جمع کیا ہوا۔ ملا ہوا۔
المَقْبِيُّ: بہت چربی والا۔

القَبِيُّ: مقدار۔
القَبَايَةُ: بیابان۔

قَبْتُ (ن) قَبَا: جمہوت بولنا۔ الثَّوْبِ:
کپڑے کو لہائی میں کاٹنا۔ الشَّيْ: کسی چیز

کو تھوڑا تھوڑا جمع کرنا۔ کم کرنا۔ مہیا کرنا۔
قَبْتُ إِلَى فُلَانٍ وَقَبْتُ أَمْرَ فُلَانٍ: ارادہ معلوم
کرنے کے لئے کسی کے پیچھے پوشیدہ طور پر
جانا۔

قَبْتُ وَقَبْتُ: الاحادیث: سخن چینی کرنا۔
وَقَبْتُ الاَقْسَادِيَّةَ: ہانڈی میں ڈالنا اور
پکارتا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ يَقْبُتُ الحَدِيثَ" وہ
باتوں میں تزویر اور تحمین کرتا ہے۔

نَقَبْتُ: الحَدِيثِ: بات کے پیچھے پڑنا۔ کان
لگانا۔

القَبْتُ: الشَّيْ: کسی چیز کو جڑ سے اٹھینا۔
القَبْتُ: ہم سے مِنَ الزَّمَانِ: حال کے بعد
آنے والا زمانہ۔

الاقبل: وہ شخص جس کی آنکھوں میں ہمیں
پن ہو۔ "زَجْلٌ اَقْبَلُ" تاک کی جانب دیکھنے
والا مرد۔ مَوْتٌ قَبْلَاءَ: مَ قَبْلُ۔

القَبْتُ: الشَّيْ: کسی چیز کو جڑ سے اٹھینا۔
القَبْتُ: ہم سے مِنَ الزَّمَانِ: حال کے بعد
آنے والا زمانہ۔

الاقبل: وہ شخص جس کی آنکھوں میں ہمیں
پن ہو۔ "زَجْلٌ اَقْبَلُ" تاک کی جانب دیکھنے
والا مرد۔ مَوْتٌ قَبْلَاءَ: مَ قَبْلُ۔

القَبَائِلُ: قا۔ آئندہ سال۔ آمادہ قبول۔
مِثْرًا۔ مَ قَبْلَةَ۔

القَابِلِيَّةُ: قبول اور تاثر کی آمادگی کی حالت۔
القَابِلَةُ: قابل کا مَوْتٌ۔ آنے والی رات۔

وَالِي جَنَائِي۔ جِ قَوَائِلُ وَقَابِلَانَتْ. قَوَائِلُ
الْأَمْرِ: اوائل امر۔

المُقَابِلُ: مِثْع۔ الزَّجْلُ الْمُقَابِلُ: ماں باپ
کی طرف سے شریف۔ کہا جاتا ہے "زَجْلُ
مُقَابِلٌ مُدَابِرٌ" نجیب الطرفین مرد۔

المُقْبِلُ: مِثْع۔ مقبول۔ مِنَ الشَّيْبِ: پیوند
لگا ہوا کپڑا۔ زَجْلٌ (مُقْتَبِلٌ) الشَّيْبِ: مرد
نوجوان جس میں بڑھاپے کے آثار ظاہر نہ
ہوں۔

المُسْتَقْبِلُ: فا۔ (المُسْتَقْبِلُ
والمُسْتَقْبِلُ) مِنَ الزَّمَانِ: آئندہ زمانہ۔

قَبِنٌ (ض) قَبُونًا. الزَّجْلُ: ملک میں جانا۔
قَبِنُ: الشَّيْ: قَبَان سے تولنا (دیکھئے قَبَان)

أَقْبِنُ: دشمن سے شکست کھانا۔ بے خوف تیز
دوڑنا۔

القَبْنَةُ: ضروریات میں بھاگ دوڑ۔
القَبَانُ: بھاری اشیاء کے تولنے کا ایک آلہ
(دُخِلُ)

القَبِينُ: اپنے کاموں میں بھاگ دوڑ کرنے
والا۔ تیز رو۔

قَبَا يَقْبُو قَبْوًا. البناء: عمارت کو بلند کرنا یا
گنبد نما بنانا۔ الزَّعْفَرَانُ: زعفران توڑنا

اور جمع کرنا۔ الشَّيْ: کسی چیز کو اٹکیوں

سے جمع کرنا (..... قَبَا) الشَّيْ: کسی چیز کو
کمان جیسا کرنا۔ الخَرْفُ: ملانا۔

قَبَى تَقْبِيَةَ المَتَاعِ: سامان مہیا کرنا۔
الثَّوْبِ: کپڑے کو قبانا نا۔ غَلِي فُلَانٌ: غلیم
کرنا۔

القَنْد والقَنْد: کچا وہ گی لکڑی۔ ج اَقْنَاد
واقْتَد و اقْتُوْد.

قَتْر (ن ض) قَتْرًا و قَتْرُوًّا. علی غیالہ:
بال بچوں پر نقتہ میں تگلی کرنا۔ صفت (قَاتِر)
و قَتُوْر و اقْتِر)..... الشَّيْءُ: بعض کو بعض سے
ملانا۔

..... السَّبِيْعُ: زرہ میں میٹھوں کے سرے
بنانا۔

..... الامْسِرُ: لازم ہونا)..... قَتْرًا و قَتْرًا
و قَتْرُوًّا مَابِيْنِ الْأَمْرَيْنِ: تخمینہ کرنا۔ اندازہ
کرنا۔

قَبْر الرِّجْلِ: روزی کا تگ ہونا۔

قَتْر (ن ض) قَتْرًا و قَتْرُوًّا و قَتْر (س)
قَتْرًا. السُّقُوْرًا و اللُّحْمُ: بد بودار ہونا.....
النَّازِ: دھوسیں والی ہونا۔

قَتْر. علی غیالہ: نان و نقتہ میں تگلی کرنا۔
اللُّحْمُ: گوشت کا بد بودار ہونا..... الصِّيَاذُ
لِلْأَسَدِ: شیر کے شکار کے لئے گڑھے میں

گوشت ڈالنا..... ہ: خاک پر پچھاڑنا.....
الشَّيْءُ: ایک دوسرے کے قریب کرنا.....

السَّرْجُلُ: پکی ہوئی چیز کی توتیز کرنا.....
الْوَحْشُ: اونٹ کے بال وغیرہ کی دھونی دینا
تا کہ شکاری کی بومحسوس کر کے بھاگ نہ
جائے..... مَابِيْنِ الْأَمْرَيْنِ: اندازہ کرنا۔

اَقْتَرُ: مال کم ہونا..... علی غیالہ: نان و نقتہ
میں تگلی کرنا..... الشَّيْءُ: لازم ہونا..... اللّٰه
رزقہ: روزی تگ کرنا..... النَّازِ: دھوسیں
والی کرنا۔ اَقْتَرَتِ السَّمْرَانَةُ: عمو کی دھونی
دینا۔

تَقْتَرُ: غصبناک ہو کر آمادہ جنگ ہونا۔

..... لِلصَّيْدِ: شکار کے لئے قترہ میں چھپنا۔
(دیکھیے قَتْرَةٌ)..... فَلَانًا: فریب دینے کا

ارادہ کرنا..... عَنْهُ: جدا ہونا..... الْأَمْرُ:
آمادہ ہونا..... لِلْأَمْرِ كَمَاذَا: نرمی برتنا۔

تَقَاتَرُ. الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو فریب دینا۔
اَقْتَسَرَ. الصَّيَاذُ: شکاری کا قترہ میں چھپنا
(دیکھیے قَتْرَةٌ)

القَتْرُ: مص۔ زندگی بسر کرنے کے قابل۔
اندازہ۔

القَتْرُ: تیز کا پھل۔ چھوٹا تیر۔ تیر کا نے جو
نشائے پر پھینکا جائے۔

القَتْرُ: گردوغبار۔ اندازہ۔
القَتْرُ والقَتْرُ: گوشہ و جانب ج اَقْتَارُ: قطر
میں ایک لغت ہے۔

القَتْرُ: متکبر۔ مغرور۔
القَتْرَةُ: قتر: کا اسم مرآة۔ گردوغبار۔

القَتْرَةُ. قَتْرُ: کا اسم نوع۔ القَتْرُ: کا واحد۔
أَبُو قَتْرَةَ: ابلیس کی کنیت۔ اِبْنُ قَتْرَةَ: ایک
غیبی قسم کا سانپ جس کا کانا ہوا پچھتا نہیں۔

ج بَسَاتُ قَتْرَةَ. قَتْرَةَ: ان سب میں غیر
منصرف ہے اس لئے کہ مَوْنُثٌ معرفہ ہے۔
القَتْرَةُ: شکاری کا چمان۔ زرہ کا حلقہ۔ تگلی
عیش۔ روشن دان۔ قَتْرَةُ البُسْتَانِ: باغ کی

تالی۔ قَتْرَةُ البَابِ: دروازہ میں بند کرنے کی
جگہ ج قَتْرُ.

القَتَارُ: پختہ چیز کی بھاپ۔ بخور یا گوشت یا
بمبئی ہوئی چیز یا چلی ہوئی بڑی یا عمو کی بُو۔

القَتِيْسُ: زرہ کی میٹھوں کے سرے۔ زرہ۔
بڑھا پایا بڑھانے کی ابتداء۔

القَاتِرُ والقَتُوْر والاقْتِرُ: بخیل۔ جو بال
بچوں پر نان و نقتہ میں تگلی کرے۔ کہا جاتا
ہے "سَرَجٌ" (قَاتِرٌ و مقْتِرٌ) آرام دہ زمین
جس سے جانور کو تکلیف نہ پہنچے۔ "وَلِحْمٌ
قَاتِرٌ". یعنی وہ گوشت جس میں چکنائی کی وجہ
سے بُو ہو۔

الاقْتَرُ: خاکستری رنگ والا۔

التَقْتِيْرُ: مص۔ قوت لا بیوت۔

قَتْعَ (ف) قَتُوْعًا: ذلیل ہونا۔
قَاتَعَهُ مَقَاتَعَةً: متاثر کرنا۔

القَبْعُ: شہد کا جھت جو چٹان میں ہو یا ایسے غار
میں ہو جو زیادہ گہرا نہ ہو۔

القَتْعُ: ایک سرخ رنگ کا کیزہ جو لکڑی کھاتا
ہے۔ واحد (قَتْعَةٌ) اور کہا گیا ہے کہ قَتْعُ:
بمبئی دیک۔

القَتْعَةُ: ذلیل۔ کہا جاتا ہے هُوَ (اَقْتَعُ مِنْهُ)
یعنی وہ اس سے زیادہ ذلیل ہے۔ مَوْنُثٌ
قَتْعًا. ج قَتْعُ.

قَتْلُهُ (ن) قَتْلًا و تَقْتُلًا: مار ڈالنا۔ صفت
(قَاتِلٌ) ج قَاتِلُونَ و قَتْلَةٌ و قَتَالٌ: کہا جاتا
ہے "قَتْلُهُ بِأَخِيهِ" یعنی اپنے بھائی کے انتقام
میں قتل کیا۔ قَتَلَ الخَمْرَةَ: شراب میں پانی
ملانا السُّجُوْعُ او السُّرْدُ: بھوک یا سردی کی

تیزی کو توڑ دینا۔ کہا جاتا ہے "قَتَلَهُ اللّٰهُ"
یعنی اللہ اس پر لعنت کرے اور یہ بدو عا کے
موقع پر کہا جاتا ہے اور مقام مدح و ثنا اور

موقع استحسان پر بھی بولا جاتا ہے اور کہا جاتا
ہے "قَتَلَ الشَّيْءُ خَيْرًا" یعنی اس نے علم کے
لحاظ سے احاطہ کر لیا "و قَتَلَ غَلِيْلَهُ" یعنی اس
نے اسے پلایا اور اس کی تگلی سیرابی کی وجہ
سے زائل ہو گئی۔

قَتْلُ الْقَوْمِ: بہت لوگوں کو قتل کرنا۔
قَاتَلَهُ قِتَالًا و قَاتَلًا و مَقَاتَلَةً: جنگ کرنا۔
دشمنی کرنا..... اللّٰهُ: لعنت کرنا۔ اور موقعہ
استحسان پر کہا جاتا ہے "قَاتَلَهُ اللّٰهُ مَا
أَشْعَرَةٌ" مُرَادًا اس سے مدح ہے نہ کہ قتل کی
بدو عا۔

اَقْتَلَهُ: قتل کے لئے پیش کرنا۔
تَقْتَلُ: چلنے میں چکنا..... لِلْأَمْرِ: مہلت دینا
..... لِفُلَانٍ: جھکتا۔ فرمانبردار ہونا (تَقْتَلُ
و تَقَاتَلُ و اَقْتَلُ) الْقَوْمُ: باہم ایک دوسرے
سے جنگ کرنا۔

اِسْتَقْتَلُ: قتل ہونے کے لئے سر جھکانا۔
(جیسا اِسْتَنْمَاتُ) قتل کے لئے اپنے آپ کو
پیش کرنا۔ فِئِى الْأَمْرِ: کوشش کرنا۔ جان
جو کھوں میں ڈالنا۔

القَتْلُ: مص. القَتْلُ العَمْدُ: قتل جو مقصود ہو
القَتْلُ الخَطَا: قتل جو غیر مقصود ہو۔

القَتْلُ: دشمن۔ دوست۔ ہمسر۔ نظیر۔ جنگجو۔
بہادر ج اَقْتَالٌ اور کہا جاتا ہے "إِنَّهُ لِقَتْلُ
شَرٍّ" وہ شر کا جاننے والا ہے۔

القَبْلَةُ: قتل کا اسم نوع۔ کہا جاتا ہے "قَتْلُهُ

بمبئی دیک۔

بمبئی دیک۔

بمبئی دیک۔

بمبئی دیک۔

بمبئی دیک۔

بمبئی دیک۔

بمبئی دیک۔

قَاتِن: بہت سیاہ۔	قَاتِلَة سُوَيَا: اس نے اس کو بڑے طریقہ سے قتل کیا۔
الْقَاتِنِينَ: کم خوراک (مذکورہ موٹ) خوارو ذلیل۔ ذبلا پتلا۔ ہار یک نیزہ۔ چھڑی۔	الْقَاتِل: نفس۔ قوت۔ کہا جاتا ہے "نَسَاقَةَ ذَاتِ قَاتِل" مضبوط اونٹنی۔
القَتْن: ایک قسم کی چوڑی مچھلی۔	القَتُول: بہت قتل کرنے والا (مذکورہ موٹ) ج قَتْل و قَتْل۔
قَتَا يَفْتُو قَتْوًا وَقَتَا وَقَتَى وَقَتَى مَقْتَى الْمُتْلُوك: اچھی خدمت کرنا۔ صفت (قات) ہے اس لئے کہ افعال لازم ہے)	القَتِيل: مقتول (مذکورہ موٹ) ج قَتْلَى وَقَتْلَاءَ وَقَتَالِي۔
القَتْوَةُ: قتا کا اسم مرۃ۔ چھلی۔	المَقْتَل: جسم کا وہ عضو مثلاً کتلی کہ جس پر ضرب پہنچنے سے آدمی نہ بچے۔ قتل کی جگہ۔ قتل ج مقاتل۔
المَقْتَى: جو خوراک پر خدمت کرے اور اکثر بادشاہ کے خدام کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ ج مَقْتُونَ وَمَقَاتِبَةٌ وَمَقَاتِبَةٌ۔	المُقَاتِلَة: لڑنے والی جماعت۔ تاتاریہ کے لئے جماعت کی تادیل کی وجہ سے ہے واحد (مقاتل)
قَتَّ (ن) قَتَا. الشئ: بھینچنا..... الاہل: اونٹ کو پانی پلانا..... واقْتَتَّ الشجر: درخت کو جز سے اکھیرنا۔ قَتَّ۔	المُقْتَل: میدان جنگ۔
قَتَا وَقَتَيْبِي. المال: بکثرت جمع کرنا۔	المُقْتَل: تجزیہ کار۔ باخبر۔ دل جس کو عشق نے ہلاک کر دیا ہو۔
القَتَات: سامان۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ القَوْمُ بِقَتَاتِهِمْ وَقَتَاتِهِمْ" قوم مع اپنے سازو سامان کے آگئی۔	قَتَمَ (ن) قَتُمًا وَقَتِمَ (س) قَتَمًا۔ الغبار: غبار کا بلند ہونا۔
القَتَات: چغل خور۔	قَتَمَ (ض) قَتَمَةً وَقَتُمًا: سیاہی مائل ہونا (..... قَتُمًا) وَجْهُهُ: چہرے کا ستیر ہونا۔
القَتَاةُ والقَتِيْفَةُ والقَتِيْفَةُ: لوگوں کی جماعت۔	أَقْتَمَ النُّومُ: بہت غبار والا دن۔
أَقْتَأُ المَسْكَانَ أو القَوْمُ: بہت گلزی والی ہوتا۔	أَقْتَمَ أَقْتَمًا. الشئ: کالا ہونا۔ سیاہی مائل ہونا۔
القَتَاءُ والقَتَاءُ: گلزی۔ واحد قَتَاءَةٌ قَتَاءُ الجَمَارِ کر یا۔	القَتَم: مص۔ غبار۔
المَقْتُولَةُ والمَقْتُولَةُ: گلزی کی جگہ۔ ج مقاتل: کہا جاتا ہے "أَرْضٌ مَقْتُولَةٌ وَمَقْتُولَةٌ" گلزی والی سرزمین۔	القَتَام والقَتِيْمَةُ: کالا غبار۔ لڑائی کا غبار۔ تاریکی۔ سیاہی۔
أَقْتَر. الشئ: گھر کے لئے سامان بنانا۔	القَتَائِم: نا۔ کالا۔ کہا جاتا ہے أَسْوَدُ قَتَائِم: بہت کالا۔ ج قَوَائِم۔
تَقْتَر: بدول ہونا۔ ڈرنا۔ خوف زدہ ہونا۔	الاقْتَم: سیاہی مائل۔ بھورا۔
القَتْرَةُ: گھر کا سامان۔	خِيَاضٌ مُتَمِيمٌ: موت کا گڑھا۔
القَتْرُد والقَتْرُد والقَتْرُد: گھر کا سامان۔	قَتَنَ (ن) قَتُونًا. السَّمَكُ: مچھلی کا خشک ہونا۔ اس کی تری کا زائل ہونا۔
القَتْرُد والقَتْرُد القَتَار: گھر کے بہت سامان والا۔ بہت بکریوں والا۔	قَتَنَ (ك) قَتَانَةٌ وَأَقْتَنَ: کم خوراک ہونا۔ ڈبلا ہونا۔
القَتْرِد: انگور کی جڑ میں خشک کوڑا کرکٹ۔	القَتَان والقَتَان: گرد و غبار۔
	القَتَان: نا۔ سیاہی مائل۔ کہا جاتا ہے أَسْوَدُ

لوگوں کی جماعت۔

القَتَارِد: قمیص کے دامن۔

قَتَشَتْ قَتَشَةً. الوتد: کھوئی کو اکھیرنے کے لئے حرکت دینا..... السَّكِيَات: ناپ پورا کرنا۔

قَتَمَ (ض) قَتَمًا. الشئ: شیر کے پانخانہ سے تھمنا..... واقْتَمَ المال: بہت لینا۔

أَقْتَمَ الرَّجُلُ ذَلِيلًا کرنا..... الشئ: جڑ سے اکھیرنا۔

قَتَمَ (ن) قَتَمًا. لَهُ مِنَ المَالِ: یکبارگی دینا..... فَي مَشِيه: سست چلنا۔

قَتَمَ (س) وَقَتَمَ (ك) قَتَمَةً وَقَتَمًا: شیر کے پانخانہ سے تھمنا۔

قَتَمَ (س) قَتَمًا وَقَتَمًا: گرد آلود ہونا۔

القَتَم والقَتُم: خیر یا شر کا صح کرنے والا۔

القَتَم: بہت دینے والا (قَتَائِم) سے معدول ہے)

القَتَائِم: نا۔ دینے والا۔

القَتَم: سخی لوگ۔

القَتَمَة: خاکستری رنگ۔

قَتَام: مٹی برکسرہ۔ مادہ بچو۔ بہت مال قیمت

قَتَا يَفْتُو قَتْوًا وَقَتَى يَقْتَى قَتَا وَقَتَى المال: جمع کرنا۔

القَتَا: ایسی چیزوں کا کھانا جس سے کھانے میں آواز نکلے جیسے گلزی وغیرہ۔

قَحَّ (ن) قَحْوَحَةٌ وَقَحَاحَةٌ: خالص ہونا۔

القَحَّ: خالص کہا جاتا ہے "فَلَانٌ كَرِيمٌ قَحَّ وَأَعْرَابِيٌّ قَحَّ" فلاں خالص کریم اور خالص

اعرابی ہے ج أَلْحَاح. القَح: سخت اور بدخو۔ مَوْتٌ قَحَّةٌ: کہا جاتا ہے أَعْرَابِيَّةٌ قَحَّةٌ۔

القَحَاح: خالص۔

قَحَبَ (ن) قَحْبًا وَقَحَابًا وَقَحَبٌ:

کھاننا۔ قَحَبَتِ المَرْأَةُ: عورت کا پرکار ہونا۔

القَحْبُ: سن رسیدہ کھانسی والا۔

القَحْبَةُ: قح کا موٹ۔ بدکار۔ زانیہ۔

بڑھیا۔ ج قخاب۔ قَحْت (ف) قَحْتًا. الشئُ: کل لے لینا۔ قَحْد (ف) قَحْدًا وَأَقْحَدَ. البعيرُ: بڑے کوبان والا ہونا۔ اِسْتَفْحَدَتِ الناقةُ: اونٹنی کا بڑے کوبان والی ہونا۔ ناقة قحدة ومقحاة: بڑے کوبان والی اونٹنی ج مقاحید۔ المقحدة: کوبان یا کوبان کی جڑ۔ ج قحادة وأقحد۔ القحاد: وہ شخص جس کے نہ بھائی ہو نہ لڑکا۔ المقحدة: کوبان کی جڑ۔ قَحِز (ف) قَحِزًا: کودنا۔ رنجیدہ ہونا۔ مضطرب ہونا۔ قَحْوُزًا: مردہ کی طرح کرنا۔ قَحِزًا وَقَحْوُزًا وَقَحِزًا: بہ: پھیلا کرنا۔ قَحِزُهُ قَحِزًا وَقَحِزُهُ بالعصا: لاٹھی سے مارنا۔ قَحِزَ قَحِزًا وَقَحْوُزًا وَقَحِزَانًا الرُّجُلُ: ہلاک کرنا۔ قَحِزُوا تَقَحِزُوا. لَهُ الكَلَامُ: سخت کلامی کرنا۔ القاحِزات: سختیاں۔ القَحِزَاتُ: پرندوں کے پھسانے کا جال۔ القَحِيزُ: مصل۔ دھمکی۔ وعید۔ بُرَائِيٌّ: جُوْعٌ مُقَحِيزٌ: سخت بھوک۔ قَحِط (ف) قَحِطًا: سخت مارنا۔ قَحِط (ف) قَحِطًا وَقَحِط (س) قَحِطًا المطرُ: بارش رکنا۔ قَحِط (ف) وَقَحِط (س) قَحِطًا وَقَحِطًا وَقَحْوُطًا وَقَحِطًا وَقَحِطًا العامُ: بارش رکنا اور خشک سالی ہونا۔ صفت قَحِيطٌ ج قَوَاحِطٌ وَأَقْحِطُ اللُّهُ الأَرْضُ: قحط ڈالنا۔ أَقْحِطُ النَّاسُ: قحط میں مبتلا ہونا۔ قَحِطٌ وَقَحِطٌ وَأَقْحِطُ البِلْدُ: بارش رکنا۔ خشک سالی والا ہونا۔ قَحِطُ النخلة: درخت خرما میں گامھا دینا۔ عامٌ قَحِطٌ وَقَحِيطٌ وَمَقْحُوْطٌ: خشک سال۔ سنةٌ قَحِيطٌ: خشک سال۔	المبفحطة: آل قحط۔ المبفحط: نہ تھکنے والا گھوڑا۔ قَحْفَه (ف) قَحْفًا: کھوپڑی کا ٹاپا توڑنا۔ الشئُ: بہا لے جانا۔ مَا فِي الأِنَاءِ: ڈگڈگا کے سب پی جانا۔ الخبُّ: دانے کو بکھیرنا۔ الرُّمَانَةُ: انار چھیلنا۔ چھلکا اتارنا۔ وَحِافٌ: کھانسی۔ فَتَحَفَ. مَا فِي الأِنَاءِ: ڈگڈگا کے سب پی جاتا۔ السيلُ كُلُّ شئٍ: بہا لے جانا۔ القحف: کھوپڑی۔ کھوپڑی کا جو حصہ ٹوٹ کر جدا ہو جائے۔ لکڑی کا پیالہ۔ ج أقحاف وَقَحْوُفٌ وَقَحِيفَةٌ: کہا جاتا ہے "رَمَاهُ بِأَقْحَافٍ رَابِئَةٍ" اس نے اس پر بڑے بڑے کام ڈال دیئے۔ اس نے اس کو تپاسی میں مبتلا کر دیا۔ "فَلَانٌ مَالَهُ قَدٌّ وَلَا قَحْفٌ" فلاں نہ تو اس کے پاس چمڑے کا پیالہ ہے نہ لکڑی کا۔ یعنی اس کے پاس کچھ نہیں قد چمڑے کے پیالہ کو کہتے ہیں۔ القحاف: ڈگڈگا کے پینا۔ القحاف: بہا لے جانے والا سیلاب۔ القحافة: ہر وہ چیز جس کو لے کر تم چست ہو جاؤ۔ القاحف: فا۔ ج قحف۔ عجاجة قحفاة: آندھی جو سب چیز کو اڑا لے جائے۔ المبفحفة: وہ لکڑی جس سے دانے کو بکھیرا جائے۔ ج مقحاف۔ قَحْل (ف) قَحْوَلًا وَقَحْل (س) قَحْلًا وَقَحْلًا وَقَحْلٌ. الشئُ: خشک ہونا۔ صفت قاحلٌ وَقَحْلٌ وَقَحْلٌ وَقَحْلٌ: اور اسی سے قَحْلُ الشَّيْخِ: یعنی بڑیوں پر کھال خشک ہوگئی اور بہت بوڑھا ہو گیا "كَيْفَ نُؤَدُّ شَيْخُكُمْ قَدْ قَحِلَ" یعنی ہم تمہارے شیخ کو کیسے واہیں کر سکتے ہیں اور حال یہ ہے کہ وہ مر گیا اور اس کی کھال خشک ہوگئی۔ أَقْحَلُ الشئُ: خشک کرنا۔ کہا جاتا ہے أَقْحَلَهُ	الصَّوْمُ: روزہ نے اس کی کھال کو خشک کر دیا۔ قَاحِلَةٌ مُقَاحِلَةٌ: لازم ہونا۔ تَقَحَّلَ. الشَّيْخُ: بڑھاپے کی وجہ سے خشک کھال والا ہونا۔ تَقَحَّلَ فِي نُؤْبِهِ وَحَالِهِ: بڑے لباس اور حال والا ہونا۔ القاحل: فا۔ من الخلود: خشک کھال۔ القحان: بکریوں کی ایک بیماری جس سے کھال خشک ہو جاتی ہے۔ القحولة: خشکی۔ المقحج: من الرجال: خشک کھال والا۔ بد حال۔ قَحْم (ن) قَحْمًا وَقَحْمًا فِي الأَمْرِ: کسی معاملے میں بلا سوچے سمجھے گھس پڑنا الیه: قریب ہونا۔ قَحْم (ف) قَحْمًا. المفاوض: بیابان طے کرنا۔ قَحْمُهُ وَأَقْحَمَهُ. فِي الأَمْرِ: معاملہ میں بلا سوچے سمجھے داخل کرنا۔ "قَحْمَ الفرسِ رَاجِسَةً" گھوڑے کا سوار کو چہرے کے بل گرانا۔ أَقْحَمَ فرسُهُ النهرَ: گھوڑے کو نہر میں زبردستی داخل کرنا۔ الكلمةُ: کسی کلمہ کو دو مثلاً زم کلمے مثلاً مضاف مضاف الیه کے درمیان داخل کرنا جیسے رجل کا لفظ اور يدمن کے درمیان اس قول میں قطع اللہ يَدُو رَجُلٌ مِّنْ قَالِهَا: اس لئے کہ اصل ترکیب یوں ہے۔ قطع اللہ يد من قالها ورجله. أَقْحَمَ الصَّوْمُ: قحط سالی کی وجہ سے اپنے مملک کو چھوڑ کر کسی سرسبز و شاداب جگہ میں چلا جانا۔ تَقَحَّمَ. الفرسُ النهرَ: گھوڑے کا نہر میں داخل ہونا۔ گھسنا۔ الفرسُ رَاجِسَةً: گھوڑے کا سوار کو چہرے کے بل کرنا۔ الأمرُ: کسی معاملے میں اپنے کو مشقت کے ساتھ ڈال دینا۔ أَقْحَمَ الأمرُ: کسی معاملہ میں اپنے کو مشقت
---	--	---

کے ساتھ ڈال دینا۔

..... فَلَاتَا : حشرات کرنا۔ کہا جاتا ہے
"اَفْتَحْنَهُ عَيْنِي" میری آنکھوں نے اس کو
ذلیل سمجھا۔ اَفْحَمَ الْمَنْزِلَ : جوم کرنا.....
النَّجْمُ : ستارے کا غائب ہونا۔ غروب ہونا
(..... وَالْفَحْمُ) بے سوچے سمجھے گھس پڑنا۔

الْفَحْمُ : ہنس۔ بہت بوڑھا۔ عمر رسیدہ۔
ذُبلًا : مؤنث قحمة ج قحام۔

الْفُحْمَةُ : دشوار کام۔ ہلاکت۔ قحط ج
فُحْم۔

..... الْفُحْمَةُ : بے سوچے کام میں مشغول
ہونا۔ بے سوچے سمجھے سڑکوں پر پڑنا۔ فُحْمُ
الطَّرِيقِ : راستہ کی دشواریاں۔ الْفُحْمُ مِنْ
الْبُخْصُوفَاتِ : وہ جو انسان کو کمر و ہات پر
برایچینتہ کریں۔ کہا جاتا ہے "لِلْفُحْمِ
فُحْمٌ"..... الْفُحْمُ مِنَ الشُّهُورِ : مہینے کی
آخری تین راتیں۔

الْفُحْمَةُ وَالْفُحْمَةُ : بہت بڑھا پنا۔
الْفُحْمُ : بہت بوڑھا۔

الْمُقْحَمُ : قاجم : کا اسم مبالغہ۔ وہ شخص جو
سخت مصیبتوں میں گھس پڑے۔ ج
مُقْحِمٌ۔

الْمُقْحَمُ : ہلاکتیں اور مفرد قحمة : جمع
خلاف قیاس ہے جیسے فلاح جمع لَمْحَة کی۔
الْمُقْحَمُ : مفتح۔ کمزور وہ اعرابی جس کی
پرورش جنگل میں ہوئی ہو۔

فَحَا يُفْحُو فُحْوًا : الدَّوَاءُ : دوا میں گل بابو
نَدْوَانَا..... (وَأَفْحَسَى) الْمَالُ : گل مال
لے لینا۔

أَفْحَتِ الْأَرْضُ : گل بابو نہ والی ہونا۔

الْمُقْحَمَةُ : پھاوڑا۔

الْفُحْوَانُ وَالْأَفْحْوَانُ : گل بابو نہ۔ واحد۔
فُحْوَانَةٌ وَأَفْحْوَانَةٌ : ج افحوی و افحاح : اور
اس کی تصغیر اَفْحِيَانٌ : ہے اور اس کا واحد
أَفْحِيَانَةٌ أَفْحْوَانَةٌ : سے دانتوں کو تشبیہ دیا
کرتے ہیں۔ أَفْحَسَى الْأَمْرُ : کام کے
اوائل۔

قَدْ : معانی ذیل میں مستعمل ہیں۔

(۱) بمعنی حسب جیسے قَدْ زَيْدٌ دِرْهَمٌ : اور کبھی
معرب ہوتا ہے جیسے قَدْ زَيْدٌ دِرْهَمٌ : یعنی
زید کے لئے ایک درہم ہر ماہ ہے اور قَدْ بَدِي
دِرْهَمٌ : بغیر لون و قایہ کے جیسے حَسْبِي
دِرْهَمٌ۔

(۲) اسم فعل بمعنی کفنی یا کفنی : جیسے
قَدْ بَدِي دِرْهَمٌ بمعنی کفنی دِرْهَمٌ : ان
سب صورتوں میں قَدْ اسم ہے۔

(۳) مضارع کے ساتھ تَوْجُّعٌ کا فائدہ دیتا
ہے۔ جیسے قَدْ يُقَدِّمُ الْغَائِبُ الْيَوْمَ : تَوْجُّعٌ
ہے کہ غائب آج آجائے اور کبھی تَقْلِيلٌ کا
جیسے قَدْ يَضُدُّ الْكُدُوبُ : جھوٹا آدمی کبھی
سچ بولتا ہے۔

اور ماضی کے ساتھ تَحْقِيقٌ کا فائدہ دیتا ہے۔
جیسے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ اتَّقَى اللَّهَ : جو اللہ سے
ڈرا۔ اس نے یقیناً فلاح پائی۔ قرآن میں
ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. قَدْ أَفْلَحَ
الْمُؤْمِنُونَ۔

اور حال سے قریب کرنے کے لئے جیسے قَدْ
قَامَ فَلَانٌ : جبکہ قیام زمانہ قریب میں ہی ہو
چکا ہو اور کبھی مضارع کے ساتھ تَشْخِيرٌ کا فائدہ
دیتا ہے جیسے قَدْ أَشْهَدُ الْغَارَةَ الشُّعَاءُ
تَحْمَلْنِي : مراد یہ ہے کہ میں لوٹ میں بہت
حاضر ہوا کرتا ہوں۔

قَدْ (ن) قَدْ وَأَقْدَدُ. الشَّيْءُ : جڑ سے کاٹنا۔
لِبَائِي فِي مِجَارْتَا يَا كَانَا. تم کہتے ہو قَدْ ذُتْ
الشَّيْءُ بِنَصْفَيْنِ اور کبھی مفعول ثانی پر یا کی
زیادتی کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے قَدْ ذُتْ
الشَّيْءُ بِنَصْفَيْنِ. قَدْ الْمَسَافِرُ الْفَلَاةُ :
بیابان طے کرنا۔ قَدْ الْكَلَامُ : بات کاٹنا۔
قَدْذُ اللَّحْمِ : کٹوے کرنا اور خشک کرنا۔

قَدْ : در و حکم والا ہونا۔

تَقَدَّدُ : پھٹنا..... الْقَوْمُ : قوم کا متفرق ہونا
..... الشَّيْءُ : خشک ہونا..... الْقَوْمُ : کت
جانا اور پرانا ہونا..... الْقَوْمُ : مختلف الرائے
فرتے ہونا..... الشُّوبُ عَلَيْهِ : کپڑے کا

اندازہ اور طول کے مطابق ہونا۔

أَفْقَدُ : پھٹنا۔

أَفْقَدُ. الشَّيْءُ : بمعنی قَدَدُهُ..... الشَّيْءُ : پھٹنا۔
..... الْأَمْرُ : تدبیر کرنا۔ تمیز کرنا۔

أَسْتَفْقِدُ. الْأَمْرُ : برابر ہونا۔ ہمیشہ ہونا۔

الْقَدُّ : مہس۔ مقدار۔ کہا جاتا ہے "هَذَا
عَلَى قَدِّ ذَاكَ" یعنی اس کے مقدار ہے۔
قامت۔ چابک۔ بکری کے پچر کی کھال۔
ج أَقْدُ وَقُدُودٌ وَفَهَادٌ أَقْدَةٌ۔

الْقَدُّ : چمڑے کا برتن۔ تمہ۔ کاٹی ہوئی چیز۔
چابک کہا جاتا ہے "مَسَالَهُ قَدٌّ وَلَا يَخْفَتُ"
اس کے پاس نہ تو چمڑے کا برتن ہے اور نہ
کڑی کا۔ جو کنا یہ ہے اس بات سے کہ اس
کے پاس کچھ نہیں۔ ج أَقْدُ۔

القَدُّ : ایک سمندری چمڑی جس کی ایک قسم سے
تیل نکالا جاتا ہے۔

الْقَدَّةُ : تمہ۔ چیز کا کٹوا۔ مختلف الرائے فرتے۔
ج قَدَدٌ وَأَقْدَةٌ : قرآن مجید میں ہے كُنَّا
طَرِيقَ قَدَدًا" یعنی ہم مختلف الرائے فرتے
تھے۔

القَدَادُ : جنگلی چوہا۔ سینا۔

القَدَادُ : پیٹ کا درد۔

القَدِيدُ : کاٹا ہوا اور خشک کیا ہوا گوشت۔
پرانا کپڑا۔

القَدِيدُ : چھوٹا ناٹ۔

القَدِيدِيُّونَ : فوج کے توابع۔ جیسے درزی
ٹائی وغیرہ۔

الْمَقْدُ : راستہ۔ ہموار جگہ۔

الْمَقْدُ وَالْمَقْدَةُ وَالْمَقْدُ : کاٹنے کی
تھمیری۔

الْمَقْدُودُ : ضعیف۔ کمزور۔

القَدِيدُ : لمسی پیڑ کی اونٹنی۔ ج قَدِيدٌ۔

قَدْخ (ف) قَدْخًا. فَيُ عَوْضُهُ : طعنہ
مارنا۔ عیب لگانا۔ کہا جاتا ہے "قَدْخٌ فَيُ
سَاقِ أَخِيهِ" اس نے اپنے بھائی کو دھوکا دیا
"قَدْخٌ الشَّيْءُ فَيُ صَدْرِي" اس چیز نے
میرے دل میں اثر کیا۔ "قَدْخٌ خِتَامٌ

الغایبۃ“ مٹنے کی مہر کو توڑ دیا۔

..... الذُّؤُدُ فِی الْأَسْنَانِ أَوْ الشَّجَرِ :

دانت یا درخت میں کیزا لگنا۔ قَدْخَتْ

الْعَیْنُ: آکھ کا دھنس جانا۔

..... الشَّیْءُ: چلو لینا..... الطَّیِّبُ الْعَیْنَ:

آکھ کے اندرونی حصہ سے پائی نکالنا۔

فِی الْقِدْحِ: تیر کے پھل میں سوراخ کرنا۔

قَدْخَ وَأَقْدَحَ: بالزَّئِدِ: چترماق سے آگ

نکالنا۔ عرب کے امثال سے ہے "أَضْنَسِ

بِی أَقْدَحَ لَكَ" یعنی تم میرے لئے ہو جاؤ

میں تمہارے لئے ہو جاؤں گا۔ قَدْخَ

وَأَقْدَحَ الْمَرْقُ: شوربا نکالنا..... الْقَبْدَرُ:

چچھ سے نکالنا..... وَأَقْدَحَ الْأَمْرَ: معاملہ کی

تدبیر کرنا۔

قَدْخَ الْفَرْسَ: گھوڑے کو دبا کرنا۔

قَدْخَتِ الْعَیْنَ: آکھ کا دھنسنا۔

قَادَحُهُ وَتَقَادَحَا: ایک دوسرے پر طعن و

تشنج کرنا۔

إِسْتَقْدَحَ: زنادہ: چترماق سے آگ نکالنے

کی کوشش کرنا۔

الْقَدْحُ: مہس۔ دانت یا کڑی کا کیزا۔

الْقَبْدَرُ: تیر بغیر پر اور بصل کے۔ جوئے کا

تیر۔ ج قَدْحٍ وَأَقْدَحَ وَأَقْدَحَانِ

وَجَّ قَادِحِیْنِ كَمَا جَاءَتْهُ "صَدَقَهُمْ وَسَمَّ

قَدْجِه" یعنی ان سے بچ کہا۔

الْقَدْحُ: پینے کا برتن۔ چھوٹے اور بڑے

دونوں کے لئے بولا جاتا ہے اور قدح خالی

برتن کو کہتے ہیں اور جب اس میں پینے کی

کوئی چیز ہو تو اس کو کاس کہتے ہیں کہا جاتا

ہے "لَا تَجْعَلُونِی كَقَدْحِ الزَّاجِبِ" یعنی

مجھ کو آخری مت بناؤ۔ اس لئے کہ سوار

سارے سامان کے رکھنے کے بعد پیالہ کو

آخر میں لٹکا تا ہے اور القَدْحُ الْفَرْدُ: کنا یہ

ہے لے پاک سے۔ ج قَدْحٍ. الْقَدْحُ:

اسم ہے۔ اِقْدَاحُ النَّارِ سے۔

الْقَدْحَةُ: قَدْحُ: کا اسم نوع۔

الْقَدْحَةُ: مِنَ الْمَرْقِ: چچھ بھر۔

الْقَدَاخَةُ: پیالہ بنانے کا پیشہ۔

الْقَادِحُ: قَا۔ دانت یا درخت کی سیاہی یا

کیزا۔ کڑی میں شکاف۔

الْقَادِخَةُ: قَادِحٌ كَمَا مَوْنَتْ۔ درخت یا

دانت کا کیزا۔ ج قَوَادِحُ کہا جاتا ہے

"حُمَى قَادِخَةٌ" بہت تیز بخار۔

الْقَدْحُ: کاسہ گر۔ تروتازہ پودے کے

اطراف۔ نباتات کے ٹھونے پھلنے سے

پہلے (..... وَالْقَدَاخَةُ) چترماق کا لوبا۔

الْقَدَاخَةُ: سگریٹ جلانے کیلئے لائٹر۔

الْقَبْدِیْحُ: شوربا یا زیادہ جو ہاڑی کی تلی میں رہ

جائے اور مشکل سے چچھ سے نکلے۔

الْأَقْدَحُ وَالْقَدْوُخُ: کبھی۔ رَجَبٌ قَدْوُخٌ: وہ

کنواں جس میں سے ہاتھ سے پائی لیا جا

سکے۔

الْمِقْدَحُ وَالْمِقْدَاخُ: چترماق۔ آگ

نکالنے کا چھریا لوبا۔

الْمِقْدَحُ وَالْمِقْدَاخَةُ: چچھ۔

أَقْدَحَ خَرَأْقِدَ خَرَأْرًا. الرَّجُلُ: بدی یا گالی

گلوچ یا لڑائی جھگڑے کے لئے تیار ہونا۔

قَدْرٌ (ن ض) وَقَبْدَرٌ (س) قَدْرًا وَقَدْرَةً

وَمَقْدِرَةٌ وَمَقْدِرَةٌ وَمَقْدَرًا

وَقَدْرًا وَقَدْرَةً وَقَدْرًا وَقَدْرًا

وَقَدْرًا وَقَدْرًا. عَلِيٌّ الشَّيْءُ: توانا ہونا

قوی ہونا۔

قَدْرٌ (ض) قَدْرًا. الْأَمْرُ: تدبیر کرنا۔ الشَّيْءُ

بِالشَّيْءِ: اندازہ کرنا۔ مقدار کے مطابق کرنا

(..... قَدْرًا) الشَّيْءِ: تیار کرنا۔ وقت صحیح

کرنا۔

قَدْرٌ (ن ض) قَدْرًا. الْأَمْرُ كَمَا: غور و فکر

کرنا۔

قَدْرٌ (ن ض) قَدْرًا وَقَدْرًا. اللَّهُ: تعظیم کرنا

(..... وَقَدْرٌ) اللَّهُ عَلَيْهِ الْأَمْرُ وَقَدْرٌ لَهُ

الْأَمْرُ: فیصلہ کرنا۔ حکم لگانا۔ قَدْرٌ الرَّزْقِ:

تقسیم کرنا۔ قَدْرٌ وَقَدْرٌ عَلَى عِبَالِهِ: اہل و

عیال پر ان وقت میں تنگی کرنا۔ قَدْرٌ عَلِيٌّ

الشَّيْءِ: قادر ہونا اور جمع کرنا۔ وَقَدْرٌ

السَّوْجَلُ: معاملہ کی درستی میں غور و فکر کرنا۔

وَقَدَّرَ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ: اندازہ کرنا۔ مقدار

کے مطابق بنانا۔

قَدَّرَ (س) قَدْرًا: چھوٹی گردن والا ہونا۔

..... عَلِيٌّ الشَّيْءِ: قدرت رکھنا۔

قَدَّرَ وَأَقْدَرَ اللَّهُ فَلَانًا عَلِيًّا كَمَا:

بنانا۔ وَأَقْدَرَ الْإِنْسَانَ: ہاڑی میں پکانا۔

قَادِرُهُ مُقَادِرَةٌ: توانائی میں مقابلہ کرنا۔

اندازہ کرنا۔ دوسرے کے کام کے مانند کام

کرنا۔

بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ: ایک کا دوسرے سے مقدار

معلوم کرنے کے لئے اندازہ کرنا اور کہا جاتا

ہے "فَلَانٌ يُقَادِرُنِي" یعنی فلاں میرے

ساتھ مساوات کا طالب ہے۔

تَقَدَّرَ الثَّوْبُ عَلَيْهِ: کپڑے کا مقدار کے

مطابق ہونا۔ لُہ كَمَا: آمادہ ہونا۔

تَقَادَرَ الرَّجُلَانِ: ہر ایک کا دوسرے کی

مساوات کا طالب ہونا۔

إِنْقَدَرَ: اندازہ کے موافق ہونا۔ کہا جاتا ہے

قَدَّرْتُ الثَّوْبَ لَمَّا قَدَّرْتُ: یعنی میں نے

کپڑے کا اندازہ کیا اور وہ اندازے کے

موافق ہو گیا۔

إِنْقَدَرَ عَلَيْهِ: قوی ہونا۔ قدرت پانا.....

الرَّجُلُ: ہاڑی میں پکانا..... الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ:

اندازہ کرنا۔

إِسْتَقْدَرَ. اللَّهُ خَيْرًا: خدا سے نیکی کا حصہ

مانگنا۔

الْقَدْرُ: مہس۔ چیز کی انتہا۔ بغیر کمی زیادتی

کے برابر ہونا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا قَدْرُ

ذَاكَ" یہ اس کے مماثل اور مساوی ہے۔

طاقت و قوت۔ عزت و وقار۔ تو انگری۔

کندھے کا سرا۔ ج اَقْدَارُ.

﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾: رمضان شریف کے آخری

عشرہ میں کوئی طاق رات۔

القَدْرُ: ہاڑی (مونت) ج قَدْوَرُ اور اس

کی تصغیر قَدْرِيَّةٌ وَقَدْرِيٌّ.

القَدْرُ: مہس۔ چیز کی انتہا۔ طاقت و قوت۔

تقدیر الہی ارادہ کا تعلق اشیاء کے ساتھ ان کے اوقات میں۔ ج اقدار۔

القَادِرُ: فا۔ ہانڈی میں پکانے والا۔ ہانڈی کا پکا ہوا۔ کہا جاتا ہے ”بَيْنَنَا لَيْلَةٌ قَادِرَةٌ“ ہمارے درمیان ایسی رات ہے جس میں چلنا آسان ہے۔

القَدْرِيَّةُ: ایک جماعت ہے جو تقدیر الہی کا انکار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بندے اپنے افعال اختیار یہ کے خود خالق ہیں اور جبریہ اس کے خلاف ہے۔

القَدْرَةُ: فعل یا ترک فعل کی طاقت۔ القَدْرَةُ: چھوٹی شیشی۔ دو درختوں کے درمیان کا فاصلہ۔

القَدَارُ والقِدَارُ: قدرت۔ القُدَارُ: میانہ قدمرد۔ چست و چالاک لڑکا۔ باورچی۔ ہانڈی میں پکانے والا۔ بڑا اثر دہا۔

القُدَارُ: پتھر جو پانی کے بہنے کی جگہ پر لگایا جائے۔

القَدَاذَةُ والقُدُوْرَةُ: مصادر۔ اقدار۔ قوت۔ تو نگری۔

القُدَيْبِيُّ: مص..... عند النحاة: کلمہ کو حذف کرنا اور نیت میں باقی رکھنا..... عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ: ہر مخلوق کو اس کے اندازہ کے مطابق کرنا۔ تقدیر الہی۔ ج تقادیر۔

القُدَيْبِيُّ: قدرت والا اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ہے۔ ہانڈی میں پکا ہوا گوشت۔

الاقْدَرُ: اسم تفضیل۔ پستہ قد اور کہا گیا ہے کہ چھوٹی گردن والا۔

القُدْرَاءُ: اقدار کا مؤنث۔ کان نہ بڑا نہ چھوٹا۔ بنو قُدْرَاءُ: اغنیاء۔

القُدْرَةُ: توانائی۔ اندازہ۔ جہانہ ج مقادیر۔

القُدْرِيُّ: فا۔ ہانڈی پکانے والا۔ کام کا ساتھی۔ ہر چیز کا وسط کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ مُقْتَدِرٌ الطَّوْلُ“ مرد میانہ قامت۔

المُقَادِرَةُ: جگہ مکان۔

المُقَدَّرُ: مفع۔ فیصل شدہ معاملہ کہا جاتا ہے ”أَمْرٌ مُقَدَّرٌ عَلَيْهِ“ یعنی ایسا امر جس کے کرنے پر انسان قادر ہو۔

المُقَدَّرَةُ: المقَدَّرَةُ والمُقَدَّرَةُ: قوت و تو نگری..... المقَدَّرَةُ: قضاء و قدر۔ تقدیر الہی۔

قَدَسٌ (ن) قُدْسًا وقُدْسًا: پاک ہونا۔ بابرکت ہونا۔

قُدْسٌ. اللہ فلانا: پاک کرنا۔ بابرکت کرنا..... الرَجُلُ اللہ: تہزیب کرنا۔ قدوس ہونے کی صفت بیان کرنا..... الحَاهِنُ عِنْدَ النَّصَارَى: عشاء ربانی ادا کرنا..... الرَجُلُ: بیت المقدس میں آنا۔ قُدْسٌ لِلّٰہ: پاکی بیان کرنا۔ اسی سے ہے ”نَحْنُ نَسْبِخُ بِحَدِّكَ وَقُدْسٌ لَكَ“۔

تَقَدَّسَ: پاک ہونا۔ القَدَاسَةُ: پاکی۔ القُدُسُ والقُدُسُ: مصادر والقُدُسُ: بیت المقدس رُوح القدس۔ حضرت جبرئیل علیہ السلام۔ وخطیبۃ القُدُسُ. جنت القُدُسُ: وہ پتھر جو پانی کی قلت و کثرت معلوم کرنے کیلئے کنوئیں میں ڈالا جائے۔

القُدُسُ والقُدُسُ: چھوٹا پیالہ۔ القَادِسُ: بڑی کشتی۔ پتھر جو اونٹ کے پانی پینے کی جگہ میں تقسیم کے لئے ڈالا جائے۔ ج قوادیس۔

قَادِسٌ: بیت حرام۔ اندلس کا ایک جزیرہ۔

القَادِسُ: چکی میں دانے ڈالنے کا برتن۔ عوام اسے کور کہتے ہیں۔ نہر سے پانی نکالنے کا برتن۔ ج قوادیس۔

القُدَاسُ: اونٹوں کے حوض کے پانی کا اندازہ کرنے کا پتھر۔ چاندی کا بنا ہوا موتی۔ بڑی شرافت۔ القُدَيْسُ: موتی۔

القُدَاسُ: سخت اقدام کرنے والا۔ سخت حملہ کرنے والا۔

القُدَاسُ والقُدَاسُ: بہاری تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے یعنی ہر نقص و عیب سے پاک۔ القُدَيْسُ: باصلاح نصاریٰ۔ مقبول

عند اللہ۔ مؤنث قَدَيْسَةٌ.

المُقَدَّسُ: مکان مقدس۔ پاک جگہ۔ بیت المقدس والبیت المقدس: یروشلیم۔ نسبت کے لئے مُقَدَّسِي ومُقَدَّسِي. أَرْضُ مُقَدَّسَةٌ: مبارک زمین۔ الأَرْضُ المُقَدَّسَةُ: فلسطین۔

المُقَدَّسُ: فا۔ یہودی عالم۔ راہب۔ قَدَعٌ (ف) قَدَعًا القَرَسُ: گھوڑے کا دوڑنا۔

..... الأَمْرُ: کرگزرنا..... فَرَسَهُ بِاللَّحَامِ: گھوڑے کو لگام سے روکنا..... السَّفِينَةُ: کشتی کہنا..... الخَمْسِينَ مِنْ عُمْرِهِ: تجاوز کرنا..... مِنَ الشَّرَابِ: گھونٹ گھونٹ پینا..... الذُّبَابُ عَنْهُ بَهْكَأً: کسی چیز سے کھی کو دفع کرنا۔ قَدَعُهُ وأَقْدَعُهُ عَنِ كَذَا: روکنا۔

أَقْدَعُ الرَجُلُ: گالی دینا۔ قَدِيْعٌ (س) قَدَعًا: رکنا۔ باز رہنا۔ قَدِيْعَتٌ عَيْنُهُ: زیادہ دیکھنے سے کمزور ہونا اور کہا جاتا ہے ”قَدَعْتُ لِيْ حُمْسُونَ“ میں تقریباً بیچاس کی عمر کو پہنچ گیا۔ قَادَعُهُ بَعِيْرُهُ: بکلیں کرنا۔

تَقَدَّعَ لَهُ بِالشَّرِّ: آمادہ بدی ہونا۔ تَقَادَعُ القَوْمُ: ایک دوسرے کو دفع کرنا اور کھینچنا..... بِالرِّمَاحِ: ایک دوسرے کو نیزہ مارنا تَقَادَعُ عَلَى الشَّيْءِ وَفِيْهِ: جوق جوق کرنا کہا جاتا ہے ”تَقَادَعُ الذُّبَابُ فِي الْمَرْقِ“ شور بے میں کھیاں پے پے پے کریں..... القَوْمُ: پے پے پے مرنا۔

إِنْقَدَعَ: رُكْنَا..... عَنِ الشَّيْءِ: شرم کرنا۔ القَدِيْعُ: بہت رونے والا۔ مَاءٌ قَدِيْعٌ: پانی جو کھاری ہونے کی وجہ سے پیانا نہ سکے۔

إِمْرَأَةٌ قَدِيْعَةٌ وقَدُوْعٌ: شرمیلی کم بولنے والی عورت۔

القَدِيْعُ: بزدلی۔ کثرت گریہ سے نگاہ کی کمزوری۔

القَدِيْعَةُ: چھوٹا سینہ بند۔ انگلیا۔ القَدُوْعُ: کبھی چیز پر گرنے والا۔ ذلیل۔

القَدُوْعُ: کبھی چیز پر گرنے والا۔ ذلیل۔

الْمُقَدَّمُ: بھری دار۔
الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔
الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔
الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔

الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔
الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔
الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔
الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔

الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔
الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔
الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔
الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔

الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔
الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔
الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔
الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔

الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔
الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔
الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔
الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔

الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔
الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔
الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔
الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔

الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔
الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔
الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔
الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔

الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔
الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔
الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔
الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔

الْقَدَمُ: خاندانی شرافت۔ سرخ کپڑا۔
الْقَدَمُ: پرانا زمانہ کہا جاتا ہے کسان کڈا
قَدَمًا: یعنی ایسا پرانے زمانہ میں تھا۔
الْقَدَمُ: حدوٹ کا ضد۔ اذیت۔ کہا جاتا
ہے "لَسْتُ قَدِيمًا فِي هَذَا الْأَمْرِ" اس کو اس
معاملہ میں اذیت ہے۔
الْقَدَمُ: پاؤں (موت ہے اور کبھی مذکر بھی
مستعمل ہے) ج القدم وقدام: اور تعبیر
قَدِيمَةً۔

الْقَدَمُ: آگے بڑھنا۔ اذیت چاہے خیر میں
ہو یا شر میں کہا جاتا ہے "الْفُلَانُ فِي كَذَا
قَدَمٌ صَدِيقٌ أَوْ قَدَمٌ سُوِيَةٌ" یعنی فلاں کے
لئے اس معاملہ میں اچھی اذیت یا بُری
اذیت ہے۔ "الْفُلَانُ عِنْدَ فُلَانٍ قَدِيمٌ"
یعنی فلاں کا فلاں پرا حسان ہے۔ "وَوَضَعَ
قَدَمَهُ فِي الْعَمَلِ" یعنی شروع کر دیا۔ "جَعَلَ
دِمَاسَهُمْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ" ان کے خون کو اپنے
قدم کے نیچے کر دیا یعنی معاف کر دیا۔
"وَأَجْعَلُ ذَلِكَ تَحْتَ قَدَمَيْكَ" اس کو
اپنے قدم کے نیچے کر دو۔ یعنی معاف کر دو۔
وَالْقَدَمُ فِي الْقِيَّاسِ: پاؤں کے انگوٹھے کے
کنارے سے اڑی کے کنارے تک۔
الْقَدَمُ: بہادر (مذکر مؤنث مفرد جمع) کہا
جاتا ہے زَجَلُ قَدَمِ امْرَأَةٍ قَدَمٌ وَرَجَالُ قَدَمٍ
وِنِسَاءُ قَدَمٍ: اور کہا جاتا ہے "هُوَ ذُو قَدَمٍ"
یعنی وہ بہادر ہے۔

الْقَدَمُ: بہادر (مذکر مؤنث مفرد جمع) کہا
جاتا ہے زَجَلُ قَدَمِ امْرَأَةٍ قَدَمٌ وَرَجَالُ قَدَمٍ
وِنِسَاءُ قَدَمٍ: اور کہا جاتا ہے "هُوَ ذُو قَدَمٍ"
یعنی وہ بہادر ہے۔
الْقَدِيمُ: بہت اقدام کرنے والا سخت
سکتان۔
الْقَدِيمُ وَالْقَدِيمُ: دلیر۔ الْقَدِيمُ: آگے
گزرنے والا کہا جاتا ہے "مَضَى قَدَمًا" وہ
سیدھا گیا ادھر ادھر نہیں مڑا مذکر مؤنث
دونوں کی صفت میں واقع ہوتا ہے۔
الْقَدِيمَةُ: دلیری۔ معاملہ میں اذیت۔
الْقَدِيمَةُ: مغرورانچال۔
الْقَدِيمُ: دلیر بہت پیش قدمی کرنے والا۔
ج قَدَمِ الْقَدِيمِ: کلباڑا۔ مؤنث ہے ج قَدَمِ
وَقَدَائِمِ (اور قَدِيمٌ ضعیف لغت ہے)

الْقَدِيمُ وَالْقَدِيمُ: دلیر۔ الْقَدِيمُ: آگے
گزرنے والا کہا جاتا ہے "مَضَى قَدَمًا" وہ
سیدھا گیا ادھر ادھر نہیں مڑا مذکر مؤنث
دونوں کی صفت میں واقع ہوتا ہے۔
الْقَدِيمَةُ: دلیری۔ معاملہ میں اذیت۔
الْقَدِيمَةُ: مغرورانچال۔
الْقَدِيمُ: دلیر بہت پیش قدمی کرنے والا۔
ج قَدَمِ الْقَدِيمِ: کلباڑا۔ مؤنث ہے ج قَدَمِ
وَقَدَائِمِ (اور قَدِيمٌ ضعیف لغت ہے)

الْقَدِيمُ وَالْقَدِيمُ: دلیر۔ الْقَدِيمُ: آگے
گزرنے والا کہا جاتا ہے "مَضَى قَدَمًا" وہ
سیدھا گیا ادھر ادھر نہیں مڑا مذکر مؤنث
دونوں کی صفت میں واقع ہوتا ہے۔
الْقَدِيمَةُ: دلیری۔ معاملہ میں اذیت۔
الْقَدِيمَةُ: مغرورانچال۔
الْقَدِيمُ: دلیر بہت پیش قدمی کرنے والا۔
ج قَدَمِ الْقَدِيمِ: کلباڑا۔ مؤنث ہے ج قَدَمِ
وَقَدَائِمِ (اور قَدِيمٌ ضعیف لغت ہے)

الْقَدِيمُ وَالْقَدِيمُ: دلیر۔ الْقَدِيمُ: آگے
گزرنے والا کہا جاتا ہے "مَضَى قَدَمًا" وہ
سیدھا گیا ادھر ادھر نہیں مڑا مذکر مؤنث
دونوں کی صفت میں واقع ہوتا ہے۔
الْقَدِيمَةُ: دلیری۔ معاملہ میں اذیت۔
الْقَدِيمَةُ: مغرورانچال۔
الْقَدِيمُ: دلیر بہت پیش قدمی کرنے والا۔
ج قَدَمِ الْقَدِيمِ: کلباڑا۔ مؤنث ہے ج قَدَمِ
وَقَدَائِمِ (اور قَدِيمٌ ضعیف لغت ہے)

الْمُقَدَّمُ: بھری دار۔
الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔
الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔
الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔

الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔
الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔
الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔
الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔

الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔
الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔
الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔
الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔

الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔
الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔
الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔
الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔

الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔
الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔
الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔
الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔

الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔
الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔
الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔
الْمُقَدَّمَةُ: بھری دار۔

الْمُقَدَّمُ: لبنان والوں کی اصطلاح میں خاندان کے اکابرین میں تیسرا درجہ اول درجہ الامیر پھر الخوند پھر الْمُقَدَّم پھر الشَّيْخ۔

اہل منطق کی اصطلاح میں۔ قَبِيضَةُ: شرطیہ کا اول جز جس پر دوسرا جز مرتب ہو جیسے اِنْ كَانَتْ الشَّمْسُ طَالِبَةً فَالْهَارُ موجودہ: دوسرے جز کا نام العالی ہے۔

المُقَدَّمَةُ والمُقَدَّمَةُ مِنَ الخَيْشِ: فوج کا اگلا دستہ۔ ہر اول..... مِنَ الْكِتَابِ: دیباچہ والمُقَدَّمَةُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: ہر چیز کا شروع۔ پیشانی' پیشانی کے بال۔ موقوف علیہ چاہے عقلی ہو یا عادی یا وضعی۔

الْقُدُومُ وَالْقُدُومُ: بکری حسیلے اور صرف کرنے کے لئے آلہ جس کو نندا کہتے ہیں۔

الْحِفْظَامُ وَالْمُقَدَّمَةُ: بہت پیش قدمی کرنے والا۔ تا مبالغہ کے لئے ہے جِجْ مَقَادِيمُ کہا جاتا ہے هُوَ يَمِشِي الْقَدِيمَةَ وَالْيَقْدِيمِيَّةَ وَالْقَدِيمِيَّةَ جبکہ میدان جنگ میں چلے اور دشمن پر حملہ کرنے میں پیش قدمی کرنے والا ہو یا جب کہ مکارم و فضائل میں سبقت کرے اور اس کی تقدیر یوں ہے کہ "مَنْشَى الْمَشِيَةَ الْحَسَنُونَ إِلَى قَوْلِ النَّاسِ يَقْدُمُ وَيَقْدُمُ"۔

الْقُدُومُ وَالْقُدُومُ: پرانا۔ کہا جاتا ہے "عَزَّ وَحَسْبُ قُدُومُوسٌ وَقُدُومُوسٌ" خاندانی عزت۔

الْقُدُومُوسُ وَالْقُدُومُوسَةُ: بڑی چٹان۔ الْقُدُومُوسُ وَالْقُدُومُوسَةُ: سخت۔ الْقُدُومُوسُ: ہر اول۔ لشکر کا اگلا حصہ جِجْ قُدُومُوسُ حَتَّى شِئْ قُدُومُوسُ: بڑا۔ الْقُدُومُوسَةُ: بڑے ڈیل ڈول کی عورت۔

الْقُدُنُ: کافی کہا جاتا ہے "قُدُنٌ زَيْدٌ يَرْهَمُ" زید کے لئے ایک درہم کافی ہے۔ قَدْ أَيَقْدُ وَقُدُوا: قریب ہونا۔ سفر سے واپس ہونا..... بِهْ فَرَسُهُ: گھوڑے کا تیز دوڑنا۔

قَدْ أَيَقْدُو قُدُوا وَقَدِي يَقْدِي وَقَدَاةٌ وَقَدَاوَةٌ. الطَّعَامُ: کھانے کا مزیدار خوشبودار ہونا۔ صفت قَدِيدٌ وَقَدِيئَةٌ: تم کہتے ہو "تَسَمَّتْ قَدَاةُ الْقِدْرِ: ہانڈی کی خوشبو کو میں نے سونگھا۔

أَقْدَى أَقْدَاءُ: خیر اور امور دینیہ میں استقامت اختیار کرنا' بوڑھا ہونا اور موت کے قریب پہنچنا..... مِنْ السَّفَرِ: سفر سے واپس آنا۔

الْمِنْكُ: منک کی خوشبو کا بھڑکنا۔ تَقْدَى تَقْدِيًا. عَلِيٌّ ذَابِيهٌ: چوپایہ پر سوار ہو کر وسط راستہ میں چلنا..... تَقْدَتِ الذَّابِيَةُ بُرَا كَيْهَا: چوپایہ پر سوار ہو کر وسط راستہ پر لے جانا۔

أَقْدَى أَقْدَاءُ بِفُلَانٍ هِيَ كَذَا: جیروی کرنا۔

القَدَاءُ: مصں۔ خوشبو۔ الْقِدُو: جڑ جس سے شامیں نکلیں۔ الْقِدُوِي: استقامت۔ پائیداری۔

القِدَّةُ وَالْقِدْوَةُ وَالْقِدْوَةُ وَالْقِدْوَةُ وَالْقِدْوَةُ: پیشوا۔ اُسوہ۔ جیسے "السِّيْ بِكْ قِدْوَةٌ" میرے لئے تمہارے اندر اُسوہ ہے کہا جاتا ہے "مَسَا أَقْدَى طَعَامٌ فُلَانٌ" یعنی فلاں کا کھانا کس قدر مزیدار خوشبودار ہے۔

قَدِي يَقْدِي قَدِيًا الطَّعَامُ: بمعنی قَدَا يَقْدُو: مزیدار و خوشبودار ہونا اور کہا جاتا ہے "قَدَتِ قِيَادِيَةٌ" قطرہ قوم کا دیہات سے آنا..... قَدِيَانَا الْقُرْسُ: گھوڑے کا تیز دوڑنا۔

قَادِي مُقَادَاةُ الرَّجُلِ: مقابلہ کرنا۔ تَقْدِي: ناز سے چلنا۔

القِدَّةُ: ایک قسم کا سانپ جِجْ قَدَات. القِدَّةُ: پیشوا۔

القَدِي وَالْقَدِي: مقدار۔ اندازہ کہا جاتا ہے "يُنْهِنَهَا قَدِي رُمُجٌ" ان دونوں کے درمیان ایک نیزہ کی مقدار ہے۔

الْقَدِيَّةُ قَدِي: کا اسم نوع۔ روش۔

طريقته۔ سیرۃ۔ کہا جاتا ہے "تُحْذِ فِي هَذِيكَ وَقَدِيكَ" اپنی روش و طریقہ پر لو۔

القَادِيَةُ: دیہات سے آنے والی قطرہ قوم جِجْ قَوَادٍ.

المُقَدِّي: قا۔ شیر۔

القَدِيَّةُ: بدیہ۔

قَدَّ (ن) قَدَا. الرِّيشُ: تیر کے پر کے اطراف کا کٹنا اور ہموار کرنا..... السَّرْجُلُ: گدی پر مارنا۔

..... الْحَجْرُ وَنَحْلٌ غَلِيظٌ: پتھر اور ہر قسم کی سخت چیز پھینکنا..... وَقَدَّمَ الشَّعْرَ: بال کا ٹٹا اور برابر کرنا۔ قَدَّوْ أَقْدَ السَّهْمَ: تیر میں پر لگانا۔

تَقَدَّدَ الْقَوْمُ: قوم کا متفرق ہونا۔

القَدَّةُ: تیر کا پر۔ القَدَّةُ: گھوڑے اور انسان کا کان۔ جِجْ قَدَّدَ وَقَدَّادٌ: پسو۔ جِجْ قَدَّانٌ وَقَدَّنُ.

القَدَّادَةُ: پر کا تراش۔ سونے وغیرہ کا ریزہ جِجْ قَدَّادَاتٌ کہا جاتا ہے "إِنَّ لِسِي قَدَّادَاتٌ وَجِدَّادَاتٌ" قَدَّادَاتٌ: سونے کے ٹکڑے اور جِجْ قَدَّادَاتٌ: چاندی کے کہا جاتا ہے "فُلَانٌ لَا يَدْعُ سَادَّةً وَلَا قَادَّةً" یعنی وہ دلا در جس کو دیکھتا ہے مار ڈالتا ہے۔

سَهْمٌ أَقْدٌ: ہر دار تیر۔ پے پر کا تیر۔ جِجْ قَدَّ جِجْ قَدَّادٌ: کہا جاتا ہے "قَالَ أَقْدٌ وَلَا هَرِيشٌ" یعنی اس کے پاس کچھ نہیں۔

القَدَّانُ: بڑھاپے کی وجہ سے دونوں کپٹی کی سفیدی۔ پرندہ کے بازوؤں کی سفیدی۔

السَّقْدُ: گدی۔ سر کے بالوں کے نکلنے کی انتہائی جگہ پیچھے کی طرف یا آگے کی طرف۔ سر کے بالوں کے کانٹے کی جگہ آگے یا پیچھے کی طرف۔

المِقْدُ والمِقْدَةُ: تراشنے کا آلہ۔

المَقْدُودُ والمَقْدُودُ: بال تراش کر ہموار کیا ہوا۔ ہر چیز ہموار اور لطیف۔ آراستہ و حیرت۔

المُقَدَّذَةُ وَالْمُقَدَّذَةُ: گول کان۔

تَقْدَذُ فِي الْجَبَلِ: پہاڑ پر چڑھنا..... فِي السُّرِّيَّةِ: کنوئیں میں گرنا اور مرنا..... الرَّجُلُ: خود رائے ہونا۔

قَادَحُهُ مُقَادَحَةٌ: گالی گلوچ کرنا۔

تَقْدَحُ لِفُلَانٍ بِالسَّيْرِ: شرارت کرنا۔

قَدَّرَ (ن) وَقَدَّرَ (ك) وَقَدَّرَ (س) قَدَّرَا وَقَدَّارَةٌ: گنہا ہونا۔ میلا ہونا۔ صفت قَدَّرٌ وَقَدَّرٌ وَقَدَّرٌ.

قَدَّرَ (ن) قَدَّرَا وَقَدَّرَ (س) قَدَّرَا وَقَدَّرَ الشَّيْءُ: گنہا کرنا۔ قَدَّرَ الشَّيْءُ: مکروہ جاننا۔ پرہیز کرنا۔ گنہا سمجھنا۔

أَقْدَرُهُ: گنہا پانا..... أَقْدَرُ فُلَانًا: تنگ دل کرنا۔ بہت بولنا۔

تَقَدَّرَ الشَّيْءُ وَمُنَهُ: میل کچیل کی وجہ سے مکروہ سمجھنا۔

القَدَّرُ: مصل۔ میل کچیل اور کبھی پانچاند کے لئے بولا جاتا ہے جِ أَقْدَاءٍ أَوْ مَقَادِيرَ: خلاف قیاس۔

القَادُورَةُ: بدی۔ قاح شرح قَادُورَاتٍ.

القَادُورَةُ وَالْقَادُورُ وَالْقَادُورُ وَذُو قَادُورَةٍ: جو بد خلقی کی وجہ سے لوگوں سے نہ ملے جو کسی چیز کو بوجہ نفرت کے نہ کھائے۔ القَادُورُ مِنَ النِّسَاءِ: مردوں سے الگ تھلگ رہنے والی۔ تنگ و شبہ سے دور۔

رَجُلٌ قَدْرَةٌ: ملامت سے دور مرد۔

رَجُلٌ مُقَدَّرٌ: مرد جس سے لوگ پرہیز کریں۔

المَقَادِيرُ: گنہگیاں۔

المُقَدِّرُ: فواحش کا ارتکاب کرنے والا۔ جِ مُقَدِّرُونَ.

القُدْرُوفُ: عیب۔ جِ قَدَارِيْفُ.

قَدَعَهُ (ف) قَدَعًا: گالی دینا۔ بے ہودہ کہنا۔

أَقْدَعُ. فُلَانًا: گالی دینا..... لِفُلَانٍ: سخت سست کہنا..... القَوْلُ: برا کہنا۔ الرَّجُلُ: فواحش کا ارتکاب کرنا۔

قَادَعَهُ: گالی گلوچ کرنا۔

قَدَعُ. قَوْبُهُ: کپڑے کو گنہا کرنا۔ میلا کچلا کرنا۔

تَقْدَعُ. لَهُ بِالسَّيْرِ: تیاری کرنا..... الرَّجُلُ: ناپسند کرنا۔

القَدَعُ: گنہا۔ بے حیائی و فحش۔

القَدَعُ: گنہگی والا۔ بے حیائی و فحش کا ارتکاب کرنے والا کہا جاتا ہے "زَمَاهُ بِالمُقَدِّعَاتِ أَوْ المَقْدِّعَاتِ" اس نے اس پر فواحش کی تہمت لگائی۔

القَدَعِمِلُ: ہونا اونٹ۔ القَدَعِمِيلُ: بہت بوڑھا۔

القَدَعِمِلَةُ: پست قامت۔ خسیس عورت اور کہا جاتا ہے "مَا عِنْدَهُ قَدَعِمِلَةٌ" اس کے پاس کچھ نہیں "زَمَاهُ فِي السَّمَاءِ قَدَعِمِلَةٌ" آسمان میں کچھ بھی بادل نہیں۔

قَدَفٌ (ش) قَدَفًا: تے کرنا..... المَصْلَاحُ: جیسوے کشتی چلانا۔ قَدَفٌ بِقَوْلِهِ: بغیر کچے بوجھ تک دینا..... السَّحْبَرُ وَبِالسَّحْبَرِ: پتھر پھینکنا۔ قَدَفَهُ بِكَذَا: تہمت لگانا

کہا جاتا ہے "هَمَّ بَيْنَ حَادِفٍ وَقَادِفٍ" وہ لوگ ڈھیلا پھینکنے والے اور لاشی مارنے والے کے درمیان ہیں..... (وَأَسْتَقْدَفُ) فُلَانًا بِالسَّحْبَرِ: پتھر مارنا..... الرَّجُلُ: تہمت لگانا۔

قَادَفُهُ: ایک دوسرے کو تہمت لگانا اور گالی دینا۔

تَفَادَفَ المَاءُ: پانی کا تیز بہنا..... القَرَسُ:

گھوڑے کا تیز دوڑانا..... القَوْمُ: آپس میں گالی گلوچ کرنا۔ تَفَادَفُوا بِالْحِجَابَةِ: ایک دوسرے پر پتھر پھینکنا۔ تَفَادَفَتْ بِهِ الامْوَاجُ: تپتیڑے مارنا اور کہا جاتا ہے "تَفَادَفَتْ بِهِ الْاَبْوَابُ" دروازوں نے دھکا دیا۔ یعنی کوئی شخص دروازے میں داخل ہونا چاہتا تھا کہ مالک مکان نے دروازہ بند کر دیا اور وہ شخص دوسرے دروازہ پر جانے کے لئے مجبور ہوا اور وہاں بھی یہی معاملہ

پیش آیا۔

انْقَذَفَ: پھینکا جانا۔

القُدْفُ وَالْقُدْفُ وَالْقُدْفُ: جانب۔ گوشہ۔

القُدْفُ وَالْقُدْفُ: پھسلنے کی جگہ۔

القُدْفُ وَالْقُدْفُ وَالْقُدْفُ وَالْقُدْفُ: دُور کہا جاتا ہے "فَلَاةٌ أَوْ يَتَةُ قُدْفٌ وَقُدْفٌ" دُور کا بیابان۔ "بِلِنْدَةِ قُدُوفٍ" دُور دراز کا شہر۔ "قَوَسٌ قُدُوفٌ" تیر کو دُور پھینکنے والی کمان۔

نَاقَةٌ قَادِفٌ وَقَادِفٌ وَقُدُوفٌ وَقُدُوفٌ: تیز دوڑنے والی اونٹنی۔

القُدْفَةُ: جانب۔ گوشہ۔ نگرہ۔ پہاڑ کا گوشہ جو نکلا ہوا ہوج قَادِفٌ وَقُدْفٌ وَقُدْفٌ وَقُدْفَانٌ.

القَادِفَةُ: بمبارطیاریہ۔ المِقْدَفُ: چھوٹی توپ۔

أَقْدَافُ القَصْرِ: محل کے کتھرے۔

القَدِيفَةُ وَالْقَدِيفُ: ہر وہ چیز جو تھمکی جائے

جِ قَدِيفٌ: اور اسی سے ہے قَدِيفٌ تیر

الْمَدِيفُ: توپ کے گولے۔ القَدِيفُ: تیر روی۔

القَدِيفُ: تھوڑا پانی۔

القَدِيفُ: اسم مبالغہ۔ سواری۔ ترازو۔

گوپیس۔ منجھنق۔ ہر وہ چیز جس سے کسی چیز کو دُور تک پھینکا جائے۔

المُقْدَفُ: لعنت کیا ہوا۔ پُر گوشت کہا جاتا

ہے "فَارِسٌ مُقْدَفٌ" جنگ آ زموہہ شہ

سوار۔

المِقْدَفُ: چپو۔ جِ مَقَادِفُ المَقَادِفُ ہلاکتیں۔

المِقْدَفُ: چپو۔ جِ مَقَادِفُ.

قَرَسٌ مُنْقَادِفٌ: تیز رفتار گھوڑا۔ سَسِيرٌ مُنْقَادِفٌ: تیز چال۔

قَدَلُهُ (ن) قَدَلًا: گدلی پر مارنا۔ عیب لگانا۔ پچھیا کرنا۔ قَدَلُ فُلَانٍ: برگشتہ ہونا اور ظلم کرنا..... فِي الامْرِ: کوشش کرنا۔

الْقَذْلُ عَيْبٌ -

الْقَذَالُ: غَدِيٌّ - سِرٌّ كَاجْتِصَاحٍ - رَجٌ قَذْلٌ
وَالْقَذَلَةُ.قَذِمٌ (ن) قَذِمْنَا لَهُ مِنَ الْمَالِ: مَالٌ
يَكْبَارُكَ دِينًا -قَذِمٌ (س) قَذِمْنَا الْمَاءَ: پانی کا گھونٹ
لینا -

انْقَدَمَ: تیز دوڑنا -

الْقَذْمَةُ: پانی کا گھونٹ -

الْقَذْمُ وَالْقَذْمُ: بہت دینے والا سردار -
السَّقِيمُ وَالْقَذَامُ مِنَ الْاَبْنَاءِ: بہت پانی والا
کنواں -بِنُرٍ قَذْوَمٌ: بہت پانی والا کنواں - رَجٌ قَذْمٌ.
السَّقِيمَةُ: مال کا ایک حصہ جو آدمی کسی کو
دے - رَجٌ قَذَالِمٌ.قَذِيٌّ يُقْدِي قَذِيٌّ وَقَذِيَانًا وَقَذِيَانًا: آکھ
میں تنکا پڑتا - آکھ کی صفت (قَذِيَّةٌ وَقَذِيَّةٌ
وَمَقْدِيَّةٌ)..... الشَّرَابُ: پینے کی چیز میں تنکا
پڑتا -قَذِيٌّ يَقْدِي قَذِيًّا وَقَذِيًّا وَقَذِيًّا وَقَذِيًّا:
آکھ کا کچھ نکالنا - کہا جاتا ہے "قَذِثْتُ
قَذِيَّةً: لوگوں کی جماعت آئی -اَقْدَى عَيْنُهُ: آکھ میں خس و خاشاک ڈالنا -
قَذَى عَيْنُهُ: آکھ سے خس و خاشاک نکالنا -قَذَى مَقَادَاةَ الرَّجُلِ: بدلہ دینا -
اِقْدَى الطَّائِرُ: سر کھلاتے ہوئے آکھ
سے تنکا نکالنا -القَدَى: تنکا - خس و خاشاک - محاورہ ہے -
"فَلَانٌ يُغْضِي عَلَيَّ الْقَدَى" یعنی فلاں ظلم
برداشت کرتا ہے اور شکایت نہیں کرتا -"صَارَ الْأَمْرُ قَذِيًّا فِي عَيْنِهِ" یعنی معاملہ
نے اس کو تکلیف پہنچائی اور اس نے اس
کے ازالہ کی کوشش کی اور امثال عرب میں
سے ہے يُبْصِرُ أَحَدَكُمْ الْقَدَى فِي عَيْنِ
أَخِيهِ وَيُغْمِي عَنِ الْجُدْعِ فِي عَيْنِهِ:
دوسرے کی آکھ کا تنکا دیکھتا ہے اور اپنی
آکھ میں شہتیر نہیں دیکھتا - یعنی دوسرے کےتو چھوٹے چھوٹے عیوب پر نظر رکھتا ہے مگر
اپنے بڑے بڑے عیوب کو نظر انداز کرتا
ہے -

القَذَاةُ: تنکا - خس و خاشاک -

القَوَاذِي: جمع ہے قَاذِيَّةٌ: کی - قَاذِيَّةٌ: لوگوں
کی جماعت جو اہل تمہارے پاس آئے -القَذِي: باریک خاک - رَجٌ قَذِيٌّ وَأَقْدَاءُ:
کہا جاتا ہے رَجُلٌ قَذِيٌّ الْعَيْنِ: وہ شخص جس
کی آنکھ میں تنکا پڑ گیا ہو -

الاقْدَاءُ: معمولی درجہ کے لوگ -

قَرٌّ (س ن ض) قَرَاءٌ: قَرَاءٌ: التَّيْمُ: دن کا ٹھنڈا
ہونا -قَرٌّ (ن ض) قَرٌّ: القَلْبُ: ہانڈی میں ٹھنڈا
پانی ڈالنا..... عَلَيْهِ الْمَاءُ: ٹھنڈا پانی ڈالنا -
کہا جاتا ہے "قَرَّ الْكَلَامُ فِي أذُنِهِ" کان
سے منہ لگا کر بات کی -قَرَّثُ (ن) قَرَيْتُ: الحَيَّةُ: سانپ کا
پھینکا رنا - (..... قَرًّا وَقَرِيًّا) الذَّجَاجَةُ:
مرغی کی کڑکڑاہٹ کا بند ہونا -قَرَّثُ (س ض) قَرَّةٌ وَقَرَّةٌ وَقَرَّةٌ وَقَرَّةٌ عَيْنُهُ:
خوشی کی وجہ سے آنکھیں ٹھنڈی ہونا - شخص کی
صفت قَرِيٌّ اور آکھ کی صفت قَرِيَّةٌ.قَرَّرَ (س ض) قَرَّرًا وَقَرَّرًا وَقَرَّرًا وَقَرَّرًا:
وَتَقَرَّرَةً: فِي الْمَكَانِ أَوْ عَلَى الْأَمْرِ: تَرَارًا
پکڑنا - ثابت رہنا - ٹھہرنا -قَرَّرَ وَقَرَّرًا: سردی زدہ ہونا -
قَرَّرَهُ: بِالْأَمْرِ: اِقْرَارًا: هُ عُلِيٌّ
الحق: جن مونا..... هُ فِي الْمَكَانِ أَوْ عَلَىالْعَمَلِ: ٹھہرانا - باقی رکھنا کہا جاتا ہے
قَرَّرْتُ عِنْدَهُ الْخَبِيرَ: حَتَّى اسْتَقَرَّ: یعنی
میں نے اس کے پاس خبر کو ثابت کیا -قَرَّرَ مَقَارَاةَ الرَّجُلِ: موافقت کرنا - قَرَّرَ فِي
الصَّلَاةِ: سکون اختیار کرنا - حرکت وغیرہ نہ
کرنا -اَقْرَأَ قَرَارًا: فَلَانًا فِي الْمَكَانِ: ٹھہرانا
..... الْعَامِلَ عَلَى الْعَمَلِ: کام پر باقی رکھنا
..... بِالْحَقِ: مان لینا - اِقْرَارًا: کرنا.....

الْكَلَامُ لَهُ: بیان کرنا -

..... الطَّائِرُ فِي عَيْنِهِ: پرندہ کو گھونٹنے میں
باقی رکھنا..... السُّلَّةُ عَيْنَهُ وَلَعْنِهِ: آنکھیں
ٹھنڈی کرنا یعنی خواہش کے مطابق دینا اور
کامیاب کرنا -..... الرَّجُلُ: ٹھہرنا - تابعدار ہونا - ٹھنڈک
میں داخل ہونا..... السُّلَّةُ الرَّجُلِ: سردی
پہنچانا - سردی زدہ کو خلاف قیاس مَقْرُورٌ:
کہتے ہیں اور مَقْرُورٌ نہیں کہا جاتا..... القَلْبُ:
ہانڈی سے چمچی ہوئی چیز کو اُتارنا - اَقْرَبْتُ
النَّاقَةَ: اونٹنی کا حمل ٹھہرنا - صفت مَقْرُورٌ.تَقَرَّرَ: ثابت ہونا - تَقَرَّرَ الْقَرَّةُ: ہانڈی کی
چمچی ہوئی چیز کو لینا اور سالن بنانا -
تَقَرَّرَ: فِي الْمَكَانِ: ٹھہرنا اور ثابت رہنا -
اَقْرَبْتُ: فَلَانًا فِي الْعَمَلِ وَعَلَيْهِ: باقی رکھنا -
الرَّجُلُ: ہانڈی کی چمچی ہوئی چیز کو سالن
بنانا - ٹھنڈے پانی سے نہانا -
اَقْرَبْتُ وَتَقَرَّرْتُ الْاَهْلَ: آسودہ ہونا -
بہت مونا ہونا -اسْتَقَرَّ: بِالْمَكَانِ: ٹھہرنا - ثابت رہنا -
السُّرُّ: مصل - مردوں کی سواری جو کچادہ اور
زین کے درمیان ہوتی ہے اور کہا گیا ہے کہ
ہودج کو کہتے ہیں - قَرَّ النَّوْبُ: کپڑے کی
تہ - يَوْمَ السُّرِّ: ماہِ ذِي الْحِجَّةِ گیارہویں
تاریخ کہ اس روز حاجی منی میں ٹھہرتے
ہیں - يَوْمَ قَرَّ: ٹھنڈا دن لَيْلَةُ قَرَّ وَقَرَّةٌ:
ٹھنڈی رات - القَرَّتَانِ: صبح شام -السُّرُّ: ٹھنڈک - کسی جگہ میں قرار - ٹھہرنے
کی جگہ اور اسی سے ہے "وَقَعْتُ بِقَرْكٍ"
یعنی جس چیز کے تم خواہش مند اور امیدوار
تھے اس کو تم نے پایا - مثلاً طالب قصاص
سے جبکہ وہ قصاص لے لے تو کہا جاتا ہے -
السُّرُّ: ایک لہسا کیڑا جو پانی کی سطح پر چلتا
رہتا ہے اور اس سے قَرَّ قَرَّ: کی آواز نکلتی
ہے اسی وجہ سے اس کا یہ نام رکھا گیا ہے -
السُّرَّادِيُّ: درزی - قصائی - شہری جو کسی کا
احسان نہ لے اور ہر پیشہ ور -

کہنا..... الامسور: معرفت احوال کے لئے
تتبع و تلاش کرنا۔

القبزاء: مصل۔ پڑھنے کی کیفیت ج
قرانات۔

القبز: وقت۔ قافیہ۔ ج اقبزاء و قبزؤ
واقبزاء اقبزاء الشغیر: شعر کے انواع اور
بحر میں اور شعر کے مقاصد۔

القزاة: دبا۔

القرآن: کلام اللہ۔

القارئ: قارئ۔ عبادت گزار ج قراء وقارئون
وقزاة۔

الاقسرا: عمدہ طریقہ سے پڑھنے والا۔ زیادہ
پڑھنے والا۔

القرء: اچھا پڑھنے والا۔ ج قراؤون۔

القرء: عبادت گزار ج قراؤون وقراؤی۔

المقرؤ والمقری والمقرؤء: جو چیز پڑھی
جائے۔

المقرأ: پڑھنے کے وقت جس پر کتاب رکھی
جائے جیسے ڈسک۔ رجل وغیرہ۔

المقری: عبادت گزار۔

القرؤ والقزء: جیش۔ طہر۔ وقت جیش۔
وقت طہر۔ ج اقزأ وقزؤء واقزؤء یا قزء:

بمعنی طہر کی جمع قزؤء اور قزء بمعنی جیش کی جمع
اقزء۔

قرب (س) وقرب (ک) قزبنا وقزبانا

وقزبانا: قریب ہونا قزبنا وقزبنا وقزبنا
وقزبنا: قریب ہونا۔

قرب (س) قزبنا: کوکھ کے درد والا ہونا۔

قرب (ن) قزبنا: السیف: تلوار کو میان
میں داخل کرنا۔ میان بنانا۔ صفت قزب اور

صفت مفعول مقزوب۔

اقزب النساء: برتن کا بھرنے کے قریب
کرنا۔ اقزبب السحابل: حاملہ کا جننے کے

قریب ہونا۔

قزبنا: میان بنانا..... الزابعی الابل:

گھاٹ پر پہنچنے کے لئے رات کو لے کے
چلنا۔ زابعی کو قزب کہتے ہیں۔ مقزب:

آنکھ۔ کناہ ہے سرور ہونے سے۔

القزاة: برا عقلم جیسے برا عظم ایشاء۔

الاستقزاة: منطقیوں کے نزدیک ایک حکم
سب پر لگانا ایک کلی کے اکثر افراد پر ہونے

کی وجہ سے جیسے حیوان کھاتے وقت اپنا نیچے
والا جزا حرکت دیتا ہے۔ اس واسطے کہ

انسان مویشی اور درندے ایسے کرتے ہیں
لہذا یہ حکم کلی (حیوان) کے سب افراد پر لگا

دیا گیا۔

الاقز: اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے "ای الایام
اقز" کون سا دن ٹھنڈا ہے۔

المقر: بھرنے کی جگہ ج مقار۔ مقر البئر:
کوئیں کی تلی میں گڑھا جس میں پانی جمع ہوتا

ہے۔

المقرؤ: پانی کا حوض۔ گڑھا۔

المقرؤز: ٹھنڈا۔ سردی زدہ۔

قزأ (ن) قزأ وقزاة وقزأنا
واقزأنا السحاب: پڑھنا۔ قزأ (ن) (ن)

قزاة: علیہ السلام: سلام پہنچانا اور یہ
امر کی صورت میں "اقزأ علیہ السلام" کہا

جاتا ہے اور اس کا تدریہ بضم قاط ہے اس
لئے اقزأہ السلام: نہیں کہنا چاہئے.....

قزأ وقزأنا الشئ: جمع کرنا اکٹھا کرنا.....
الناقء: اونٹنی کا حاملہ ہونا..... السحابل: حاملہ

کا جننا۔

قزاة قزاة ومقزاة: شریک درس ہونا۔

اقزاة اقزاة: السرجل: پڑھانا.....
السلام: سلام پہنچانا۔ اقزأ من السفر: سفر

سے واپس ہونا..... الامسور: قریب ہونا.....
عنه: پھرنا۔

النجم: ستارہ کا غروب ہونا.....
السرجل: عبادت کرنا..... الحاجة:

ضرورت کو مؤخر کرنا۔ اقزأت الريح: ہوا
کا وقت پر چلنا..... زیادہ پیچھے ہٹنا.....

الحاجة: حاجت کا مؤخر ہونا۔

تقزأ: عبادت کرنا فقیہ ہونا عالم ہونا۔

استقزأ استقزأ: فلانا: پڑھنے کے لئے

القزاة والقزاة: بھرنے کی جگہ۔ سکون و
اطمینان حاصل ہونے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے

"صاز الامسور القزاة" یعنی انتہا کو پہنچ
گیا۔ القزاة: کسی مسئلہ میں جس پر رائے

بھیرے۔ اهل القزاة: شہری لوگ کہ وہ
اپنے مکانوں میں قیام کرتے ہیں۔ بخلاف

اہل بدو کے کہ وہ خانہ بدوش ہوتے ہیں ذار
القزاة: دار آخرت۔ القزاة: یہ تہ قد گول

گڑھا جس میں بارش کا پانی جمع ہو۔

القزاة: قز: کا اسم نوع۔ ٹھنڈک۔ عرب کے
امثال میں سے ہے "جوزة علی قزاة" اس

شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو تمیر کے خلاف
ظاہر کرے۔

المقرء: او قزوة العین: ایک قسم کی گھاس جو
پانی کے بننے کی جگہ میں ہوتی ہے اور یہ

جریر کے علاوہ ہے اس لئے کہ جریر کڑوی
اور یہ میٹھی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے "ھو قزوة

عینی" وہ میری آنکھوں کے لئے ٹھنڈک
ہے۔ "ابو قزوة" گرگت کی کنیت۔ اسی لئے

کہ سردی کا غلبہ اس پر بہت ہوتا ہے اور اسی
وجہ سے یہ ہمیشہ آفتاب کے سامنے رہتا

ہے۔

القزاة والقزاة والقزاة: مینڈک۔

المقرء والمقرء والمقرء: القزاة: ہانڈی
کی تلی میں جو لوگ جائے۔ ہانڈی کی

کھرچن۔

القزای: سختی جو پرہیز کرنے کے باوجود واقع
ہوئے۔

المقرء والمقرء والمقرء: القزاة: القزاة
والقزوة: پانی جو پکا لینے کے بعد ہانڈی

میں ڈالا جائے تاکہ جلنے نہ پائے۔

القزور: ٹھنڈا پانی۔

القزورة: آنکھ کا ڈھیلا۔ تریا خشک کھجوروں
کا برتن۔ شراب کا برتن ج قزوریر۔

القزور والبقرة: ثبوت۔ سکون۔

القز: قاز: ٹھنڈا دن۔

القزاة: مؤنث۔ قزاز. عین قزاة: ٹھنڈی

نہیں۔ اور اُونٹوں کو قوارب کہتے ہیں
مُقَرَّبَةٌ: نہیں۔

قَرَبْتُ: قریب کرنا..... هَ الْأَمِيرُ: خاص
لوگوں میں سے بنا لینا۔ قَرَبْتُ الْقُرْبَانَ لِلَّهِ:
قربانی کرنا۔ قَرَبْتُ فَلَانًا حَبَاكَ اللَّهُ
وَقَرَبْتُ ذَارِكًا: کہنا..... الْقَرَسُ: دگی چلنا
..... الرَّجُلُ: کوکھ کے درروالا ہونا۔

قَارَبَهُ مُقَارَبَةً: قریب ہونا۔ خوش کلامی
کرنا۔ قَارَبَ فِي الْأَمْرِ: غلو کو چھوڑ دینا اور
میان روی اختیار کرنا۔

تَقَرَّبْتُ تَقَرُّبًا وَتَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ بِالْقُرْبَانِ:
قرابت و صحت..... السَّرْجُلُ: کوکھ پر ہاتھ
رکھنا اور کہا جاتا ہے "تَقَرَّبْتُ يَا رَجُلُ" یعنی
جلدی کرو اور کہا گیا ہے کہ یہ امر ہی کے ساتھ
خاص ہے۔

تَقَارَبْنَا: ایک دوسرے کے قریب ہونا۔
تَقَارَبَ الزَّرْعُ: بھتی کا پکنے کے قریب ہونا۔
تَقَارَبَتْ: قریب ہونا۔

اِقْتَرَبَ الرَّاعِدُ: قریب ہونا..... الشَّيْطَانُ:
ایک دوسرے کے قریب ہونا۔

اِسْتَقْرَبَ: الشَّيْءُ: قریب سمجھنا۔
الْقُرْبُ وَالْقَرَابُ: نزدیکی۔

الْقُرْبُ وَالْقَرَبُ: کوکھ۔ جِ اقْرَابُ:

السَّقَرُ: کنواں جس کا پانی قریب ہو ج
اقْرَابُ (.....) وَالْقَرَابَةُ: گھاٹ پر پہنچنے کے
لئے رات میں چلنا۔

الْقُرْبَةُ وَالْقَرَبَةُ: نیک افعال۔ جن سے اللہ
تعالیٰ کی قربت حاصل ہو۔ جِ قُرَبُ:

وَقُرْبَاتُ وَالْقَرَبَةُ: جلد اور مرتبہ کی نزدیکی۔
الْقَرَبَةُ: صحت۔ جِ قَرَبُ وَقُرْبَاتُ وَقُرْبَاتُ

وَقُرْبَاتُ: اور مثل ہے لَقِيْتُ مِنْهُ عَرَقُ
الْقَرَبَةُ: یعنی مجھے اس سے بہت زیادہ تکلیف
ہوئی۔

الْقَرَابُ: میان جِ قُرُبُ وَأَقْرَبَةُ:

قِرَابُ الشَّيْءِ وَقُرَابُهُ: اندازے میں برابر۔

السَّقَرَابُ وَالْقَرَابَةُ: قریب کہا جاتا ہے "مَا
هُوَ بِشَيْبِهَكَ وَلَا بِقَرَابَةِ مِنْكَ" نہ تو وہ

تمہارے مشابہ ہے اور نہ تم سے قریب ہے۔
الْقُرْبِيُّ وَالْقَرَبَةُ وَالْقَرَابَةُ: رشتہ داری اور
کہا جاتا ہے "لَيْسَ الْإِنْسَاءُ قُرْبَةً" جب کہ
بمہر نے کے قریب ہو۔

الْقُرْبَانُ: ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کا
تقرب حاصل کیا جائے۔ چاہے ذبیحہ ہو یا
کچھ اور بادشاہ کا خاص ہم نشین۔ جِ
قَرَابِينُ:

السَّقَرَانُ مِنَ الْإِنْبِيَةِ: برتن جو بھرنے کے
قریب ہو۔ مَوْتٌ قُرْبِيَّةٌ جِ اقْرَابُ الْقُرْبَانِ
بادشاہ کا خاص ہم نشین۔

الْقَارِبُ: ڈوگی۔ چھوٹی کشتی جِ قَوَارِبُ:
القَارِبُ: رات کو پانی ڈھونڈنے والا۔

الْقَرَبِيُّ: نزدیک۔ رشتہ دار جِ اقْرَبَاءُ
وَقَرَابِي مَوْتٌ قُرْبِيَّةٌ جِ اقْرَابِ الْقَرَبِيِّ

: اشعار کی ایک بحر کا نام ہے جو مجموعیوں کے
استعمال میں ہے۔ کہا جاتا ہے "جِئَاءُ وَ
قُرَابِي" وہ سب قریب قریب آئے اور یہ
قریب کی جمع خلاف قیاس ہے۔

الاقْرَابُ: اسم تفضیل۔
اقْرَبَاءُ الرَّجُلِ وَأَقْرَبُهُ وَأَقْرَبُوهُ: قریبی
رشتہ دار۔

السَّقَرَنْبِيُّ: لمبی ناٹھوں کا کبیرا جو گہریلا کے
مشابہ ہوتا ہے۔

السَّقَرَبِيُّ: مصل ایک قسم کی دوڑ۔
السَّقَرَبُ: مصلح من الخيل: عمدہ گھوڑا جس
کی خوبی کی وجہ سے تمہان قریب بنایا جائے۔

مَوْتٌ مَقْرَبَةٌ:

السَّقَرَبُ وَالْمَقْرَبَةُ: مختصر رات۔
الْمَقْرَبُ: رات میں چلنا۔

الْمَقْرَبُ: نا..... مِنَ الْخَوَامِلِ: جس کے
جننے کا زمانہ قریب ہو۔ جِ مَقْرَابُ وَ
مَقَارِبُ:

الْمَقْرَبَةُ وَالْمَقْرَبَةُ وَالْمَقْرَبَةُ: رشتہ داری۔
السَّقَرَابُ: نا۔ جیدا درردی کا درمیان۔
متوسط الحال۔

الْمَقْرَابُ: مصلح۔ مِنَ الْمَتَاعِ: سستا

ساماں۔

السَّقَرَابُ: نا۔ ایک بحر کا نام ہے جس کا
وزن قحولن آٹھ مرتبہ ہے۔ پرتہ قدمرد۔

السَّقَرَبُوتُ وَالْقَرَبُوتُ: زین کا آگے پیچھے
بلند حصہ۔ جِ قَرَابِيَسُ:

قَرَّتْ (ن ض) قَرَّتْنَا وَقَرُّوتَا وَقَرَّتْ (س)
قَرَّتْنَا الدَّمُ: بتہ خون خشک ہونا۔ زخم میں
خون کا بگڑ جانا۔ مارکی وجہ سے بدھی پڑنا۔

قَرَّتْ الظَّفُرُ: خون کا ناخن میں بگڑ جانا.....
(السَّرْجُلُ) عَمَّ يَاعَصَهُ كِي وَجْهٍ سَ چہرہ کا متغیر
ہونا۔

قَرَّتْ (ن) قَرُّوتَا الرَّجُلُ: خاموش ہونا۔
الْمَقَارِبُ وَالْمَقْرَبَاتُ: جو چیز طے اس کو
کھانے والا۔ دَمٌ قَارِبٌ: کھال اور گوشت
کے درمیان خشک ہونے والا خون۔

القَارِبُ وَالْقَرَاتُ: عمدہ مشک۔
القَرَّتْ: مصل۔ برف۔

قَرَّتْ (س) قَرَّتْنَا الرَّجُلُ: محنت کرنا اور
کمانا۔

قَرَّتَهُ (ض) قَرَّتْنَا الْأَمْرُ: دشوار ہونا۔ مشکل
ہونا۔ سخت ہونا۔

القَرَبِيَّتُ: مچھلی کی ایک قسم۔
القَرَّتُ: چھوٹا کوڑہ۔

قَرَحَهُ (ف) قَرَحَا وَقَرَحَهُ: زخمی کرنا۔
قَرَحَ وَقَرَحَ البَسْرُ: جہاں پانی نہ لگتا ہو
کنواں کھوٹا۔ قَرَحَهُ بِالْحَقِّ: حق سے
پیش آنا۔ قَرَحَ النَّبَاتُ: کو نیل لگانا.....
الأَرْضُ: سبزہ لگانا شروع ہونا۔

قَرَحَ (ف) قَرُّوحَا وَقَرَّاحَا وَقَرَحَ (س)
قَرَحَا القَرَسُ: گھوڑے کا پانچ سال کا ہونا۔
قَرَحَتْ (ف) قَرُّوحَا وَقَرَّاحَا. النَّاْفَةُ:
اونٹنی کا حمل ظاہر ہونا۔ صفت قَارِحُ:

قَرِحَ (س) قَرَحَا: پھوڑوں والا ہونا کہا
جاتا ہے "قَرِحَ قَلْبُهُ مِنَ الحُزْنِ" اس کا دل
غم سے زخمی ہو گیا "قَرِحَتْ سِنُّ الضَّبِيِّ"
لڑکے کے دانت نکلنے کے قریب ہوئے۔

قَارَحَهُ مَقَارِحَةً: روڈ ررو ہونا۔

أَفْرَحُ الْفَرَسُ: گھوڑے کا بیچ سالہ ہونا۔
أَفْرَحَهُ اللَّهُ: آجے ڈالنا۔ پھوڑے نکالنا۔
تَفْرَحُ لِلْأَمْرِ: تیار کرنا..... الْحَسَدُ:
پھوڑے والا ہونا۔

إِقْتَرَحَ الْخَطْبَةُ: فی البدیہہ خطبہ دینا
..... الْأَمْرُ: بغیر کسی نمونہ کے ایجاد کرنا.....
الشَّيْءُ: بغیر سننے کے اپنی طرف سے استنباط
کرنا۔ چننا۔ اختیار کرنا..... الْجَيْزُ: جس
اُونٹ پر کوئی سوار نہ ہو یا سوار ہونا.....
عَلَيْهِ كَذَا وَبِكَذَا: جتنی سے اور بغیر سمجھے
یو سمجھے سوال کرنا..... عَلَيْهِ كَذَا: بنوانے کی
خواہش کرنا۔ کہا جاتا ہے "إِقْتَرَحَ عَلَيْهِ
صَوْتٌ كَذَا" اس سے اس نے فلاں آواز
کی خواہش کی..... الْبَسْرُ: جہاں پانی نہ ہو
کنواں کھودنا۔

الْقَرْحُ: مصل۔ زخم۔ پھوڑا۔ سخت کھجلی جو
اُونٹ کے بچوں کو ہلاک کر دے۔ ج
قَرْوَحُ:

الْقَرْحُ: ہر چیز کا اڈل۔ نئے کنوئیں کا پہلا
پانی۔ مینے کی ابتداء کی تین راتیں۔
الْقَرْحُ: مصل۔ اُونٹ کو خارش اور انسان کو
چھک نہ ہونے کی حالت۔

الْقَرْحَةُ وَالْقَرْحَةُ: پرانا پھوڑا جس میں
چھپ چھپ ہو..... الْقَرْحَةُ الشَّيْءُ او الرَّبِيعُ:
جاڑے یا بہار کی ابتداء۔ الْقَرْحَةُ لَيْلِي وَجِيهِ
الْفَرَسِ: گھوڑے کی پیشانی پر سفیدی۔ کہا
جاتا ہے "قَرْحَةُ أَصْحَابِهِ" وہ اپنے
ساتھیوں میں ممتاز ہے۔

الْقَرْحُ: پھوڑوں والا۔
الْقَرْحُ: خالص پانی۔ بے پانی اور درخت
کی زمین۔ ج اَفْرَحَةُ.

الْقَرْحَانُ: شیر۔

الْقَرْحَانُ: مِنَ الْإِبِلِ: اُونٹ جس کو کبھی
خارش نہ ہوئی ہو..... مِنَ النَّاسِ: وہ شخص
جس کو چھک نہ ہوئی ہو۔

الْقَرْحَانُ وَالْقَرْحَانِي: جو جنگ میں کبھی
شریک نہ ہوا ہو۔ کہا جاتا ہے "أَنْتَ قَرْحَانٌ

وَقَرْحَانِي مِنَ الْأَمْرِ" تم معاملہ سے علیحدہ
ہو۔ صفت مَوْنُثُ قَرْحَانِيَةُ الْقَرْحَانِي: جو
بیش بہتی میں رہے اور جنگل کی طرف نہ
جائے۔

الْقَرْحَانِيَانُ: دونوں کوکھ۔
الْقَارِحُ: قاصد ذی الخافض: جس کے
پورے دانت نکل آئے ہوں۔ ج قَوَارِحُ
قَرْحُ وَمُقَارِيحُ: مَوْنُثُ قَارِحُ وَقَارِحَةُ
ج قَارِحَاتُ وَقَوَارِحُ.

الْقَارِحُ: شیر۔ کمان جو تانت سے ڈور ہو۔
قَارِحُ الْفَرَسِ: وہ دانت جس کے نکلنے کے
بعد اس کو قارح کہا جائے۔

الْقَرْوِيحُ: زخمی۔ ج قَرْوَحِي وَقَرْوَحِي:
خالص پانی وغیرہ۔ پہلا بادل جو ظاہر ہو۔
قَرْوِيحُ السَّحَابَةِ: بارش بوقت نزول۔

الْقَرْوِيحَةُ: ہر چیز کا اڈل۔ کنوئیں کا پہلا پانی
..... مِنَ الْإِنْسَانِ: طبیعت۔ قَرْوِيحَةُ
الشَّاعِرِ او الْكَاتِبِ: ملکہِ راسخہ۔ ج
قَرْوَالِحُ.

الاقْرَحُ: اسم تفضیل۔ صبح۔ فَرَسٌ اَفْرَحُ: وہ
گھوڑا جس کی پیشانی میں دو دم کے برابر یا
اس سے کم سفیدی ہو مَوْنُثُ قَرْحَاءُ ج
قَرْوُوحُ. رَوْحَةُ قَرْحَاءُ: سبزہ زار۔ سفید
پھولوں والا باغ۔

الْمَقْرُوحُ: مفتح..... مِنَ الطَّرْقِ: واضح
راستہ۔ (..... وَالْمَقْرُوحُ) پھوڑوں والا کہا
جاتا ہے "لَقِيحَةُ مُقَارِحَةٍ" یعنی میں اس سے
رودر رولما۔

الْقَرْحِيَاءُ: زمین جو زراعت یا پودہ لگانے
کے لئے خاص ہو۔

الْقَرْوِوِاحُ: لمبے پاؤں کی اونٹنی۔ ج قَرْوِوِاحِ
الْقَرْوِوِاحُ: زمین مقابل آفتاب۔ زمین جو
زراعت یا پودہ لگانے کے لئے خاص ہو۔

قَرْوِدُ (س) قَرْوِدًا: الْأَدِيمُ: ادھوڑی کا کرم
خوردہ ہونا..... الْكَحْلُ فِي الْعَيْنِ: سرمدہ کا
پراگندہ ہونا..... أَسْنَانُهُ: چھوٹا ہونا اور
سوڑھے سے ملنا..... الْجِلْكُ: بد مزہ ہونا

(..... وَتَفْرُدُ) الشَّفَرُ: بالوں کا
گھٹنگھٹا لے ہونا۔ ایک پر ایک جم کر مندہ
جیسا ہونا۔

قَرِدٌ وَأَقْرَدٌ وَقَرْدٌ: در ماندگی سے خاموش
رہنا۔ زمین سے چٹنا۔ قَرْدَةٌ: دھوکا دینا۔
قَرْدُ الْبَعِيرِ: اُونٹ سے چھڑی نکالنا۔ قَرْدٌ
وَأَقْرَدٌ إِلَيْهِ: تابعدار ہونا قَرْدُ الْمُتَجَرِّكُ:
ساکن ہونا۔ اَقْرَدُ الْبَعِيرُ: چھڑی والا ہونا۔
اسی نرم چال چلنا جس سے سوار کو حرکت نہ
ہو۔

قَرْدٌ (ض) قَرْدًا. الْمَالُ: جمع کرنا۔ کمانی
کرنا..... هَيْئُ الْبِقَاءِ: مٹکیزہ میں دودھ یا
گھی جمع کرنا۔

الْقَرْدُ: مصل۔ پتہ۔ گردن۔
الْقَرْدُ وَالْقَرَادُ: چھڑی واحد۔ قَرْدَةٌ
وَقَرَادَةٌ ج قَرْدَانُ. الْقَرَادُ: پستان کا سرا۔
کہا جاتا ہے "نَزَعْتُ قَرَادًا فَلَانٍ" یعنی میں
نے اس کو فریب دیا۔

الْقَرْدُ: بندر لنگور ج اَقْرَادٌ وَأَقْرُدٌ وَقَرْدُودٌ
وَقَرْدُو قَرْدَةٌ: مَوْنُثُ الْقَرْدَةِ. ج قَرْدُ.

الْقَرْدُ: مصل۔ اُون یا کتان کا ردی حصہ۔
پتی اُناری ہوئی گھوڑی شاخ۔ واحد قَرْدَةٌ.
الْقَرْدُ: زبان کا ہلکا پن۔ بادل کے متفرق
چھوٹے چھوٹے ٹکڑے۔

الْقَرْدُ واحد (قَرْدَةٌ) گھوڑی شاخ جس کے
پتے صاف کر دیئے گئے ہوں۔

الْقَرْدُ: مِنَ الْإِبِلِ: بہت چھڑی والا اُونٹ۔
گھٹنگھٹا۔ زَجَلٌ قَرْدُ الْفَمِ: ایسا شخص
جس کے دانت پیدائشی چھوٹے ہوں۔

زَجَلٌ قَرْدُودٌ: ساکن مرد۔

الْقَرَادُ: بندر والا۔

الْقَرْوَيْدِسُ: کبڑی کے برابر اس جیسی پھجلی۔
(یونانی لفظ)

قَرْوِدَحُ قَرْوِدَحَةٌ: اقرار کر لینا۔ تابع و
فرمانبردار ہونا اور استعمال عوام تمھیں بناانا
اور درست کرنا۔

الْقَرْوِدَاجِي وَالْقَرْوِدُ حَجِيحِي: تمھیں بناانے

تَقْرُشُ. الصَّالِ: جمع کرنا.....عَنِ السَّيَاتِ
بُرَايِمٍ سے پرہیز کرنا۔ چٹنا.....الشَّيْ:
اَوَّلُ اَوَّلٍ لِيَا.....الشَّيْ: چٹنا۔ تَقْرُشُ
القَوْمِ: قوم کا جمع ہونا۔ تَقْرُشَتْ وَتَقَارَشَتْ
الرِّمَاحُ: لڑائی میں نیزوں کا آپس میں
گھمتا۔ تَقَارَشَ القَوْمُ: ایک دوسرے کو نیزہ
مارنا اور اس سے جھنکار پیدا ہونا۔

اِقْرَشُ. لِيَعَالِهِ: کمانی کرنا۔ اِقْرَشَتْ
الرِّمَاحُ: لڑائی میں نیزوں کا آپس میں گھمتا۔
بِه: چٹکی کھانا۔ تقصان پہنچانے کے لئے
کوشش کرنا۔

القَرَشُ: جو ادھر ادھر سے جمع کیا جائے۔
ج قَرُوشٌ..... قَرُوشُ الشَّيْ: چیزی کی آواز۔
القَرُوشُ: پیاسٹر۔ ایک ترکی سکہ مسادی ۰۲/
(ذیل)

القَرَشُ والقَرِيْشُ: ایک قسم کی مچھلی جس کو
كَلْبُ البَحْرِ بھی کہتے ہیں جو پانی کے اندر
جانوروں کو اپنے دانت سے تلواری کی طرح
کاٹ دیتی ہے۔

قَرِيْشُ: عرب کا مشہور قبیلہ اور نسبت کے
لئے قَرِيْشِيٌّ وَقَرِيْشِيٌّ.

رِمَاحُ قَسَاوِشٍ: لڑائی میں گتھے ہوئے
نیزے جین قَرِيْشُ: سخت خشک نیبر۔

المَقْرَشِيَّةُ مِنَ السَّبِيْنِ: سخت قحط کا سال۔
قَرَضٌ (ن) قَرَضًا لِحَمَّةٍ: چٹکی لینا.....ہ

بِلِسَانِهِ: تکلیف دہ کلمات کہنا.....الْقَوْبُ
بِالْمَاءِ: انگلیوں کے پوروں سے دھونا.....

الرِّبْعُوْتُ: بھوکا کانا.....قَرَضَةُ الحَيَّةِ:
سانپ کا ڈسنا۔ قَرَضَ وَقَرَضَ الشَّيْ:
کانا.....العَجِيْنُ: گندھے ہوئے آٹے
کے بڑے بنانا۔

قَارَضَهُ وَمَقَارَضَةً: ایک دوسرے کو چٹکی
لینا۔

قَرَضَ (س) قَرَضًا: ہمیشہ غیبت کرنا اور
تکلیف دہ کلمات بولنا۔

القَرُوضُ: روٹی کی تکیا۔ قَرَضَ الشَّمْسِ:
آفتاب کا گرہ۔ کہا جاتا ہے "غَابَ قَرَضُ

مَقْرُوزٌ: کٹھے ہوئے بدن کا پستہ قدمرد۔
القَرُوزُومُ: موچی یا موزہ بنانے والوں کا
فرم۔

قَرَسٌ (ض) قَرَسًا. المَاءِ: پانی کا ٹھنڈو
سرد ہونا.....البَرْدُ: تیز جاڑا ہونا.....
السَّفَرُورُ: سخت سردی کی وجہ سے کام نہ کر
سکتا۔

قَرَسٌ (س) قَرَسًا. البَرْدُ: تیز جاڑا ہونا۔
الرَّجُلُ: بٹھرا۔

أَقْرَسَ. العُوْدُ: کڑی کی تری کا اس کے
اندر جم جانا۔ أَقْرَسَ البَرْدُ أَصَابِعَهُ: سردی
کا انگلیوں کو سن کر دینا۔

أَقْرَسَ وَقَرَسَ. البَرْدُ فُلَانًا: بٹھرا دینا۔
أَقْرَسَ وَقَرَسَ المَاءُ: جمادینا۔

القَرَسُ والقَرَسُ والقَرِيْسُ: سخت سردی۔
القَرَسُ والقَرِيْسُ: جما ہوا۔ کہا جاتا ہے
"أَصْبَحَ المَاءُ قَرِيْسًا" پانی جم گیا۔

القَرِيْسُ: چھوٹے ٹھہر۔
القَارِسُ: فا۔ سخت سردی۔ شَيْءٌ قَارِسٌ
وَقَرِيْسٌ: پرانی چیز۔

القَرَسُ والقَرِيْسِيَّةُ: مِنَ الْاِبِلِ وَغَيْرِهَا:
مونا و مضبوط۔ کہا جاتا ہے "لَهُمْ مُلْكٌ
قَرِيْسِيَّةٌ وَعِزٌّ قَرِيْسِيَّةٌ" ان کے لئے مضبوط
مملکت اور پائیدار عزت ہے۔

القَرِيْسِيَا: ایک درخت ہے جس کا پھل
کالے انور کی مانند ہوتا ہے۔ صاد سے بھی
لکھا جاتا ہے۔ ذیل۔

قَرَشَةٌ (ن ض) قَرَشًا: کانا۔ قَرَشُ
السَّجِيْشِ بِالرِّمَاحِ: نیزہ مارنا.....الشَّيْ:
ادھر ادھر سے لکھا کرنا اور بلانا.....مِنَ
السَّطْعَامِ: تھوڑا سا کھانا پانا.....وَقَرَشَ
وَتَقْرَشَ لِيَعَالِهِ: کمانی کرنا۔ وَقَرَشَ بَيْنَهُمْ
بِرَايِمَتِهِمْ: چٹل خوری کرنا۔

قَرَشَةٌ: قریش کی طرف منسوب کرنا۔
أَقْرَشَ بِهِ: چٹکی کھانا۔ عِيُوْبٌ ظَاهِرٌ كَرَنًا
أَقْرَشَتُهُ الشَّجَّةُ: بغیر چورہ ہونے کے ہڈی
ٹوٹنا۔

اور درست کرنے والا۔
اِقْرُدْخَ لَهْ: جتوئے گناہ کرنا۔

القَرْدُوْخُ والقَرْدُوْحُ: انگور۔ بڑا بندر۔
القَرْدُوْحَةُ والقَرْدُوْحَةُ: نوجوان کے گلے کا
ٹیٹا۔

المَقْرُدِيْحُ: فا۔ آمادہ شرارت۔
القَرْدُدُ: سخت اور بلند زمین ج قَرَادِدُ: کہا
جاتا ہے "جَاءَ الحَدِيْثُ عَلَيَّ قَرْدِدِهِ" اس
نے بات کو اپنے موقع پر کہا۔

القَرْدُوْدُ: سخت اور بلند زمین۔ ج قَرَادِيْدُ
القَرْدُوْدُ: انسان کی پیٹھ کا وسط۔
القَرْدُوْدَةُ: سخت اور بلند زمین۔

قَرْدُوْدَةُ الشَّيْءِ: جاڑے کی شدت۔
قَرُوْدَةُ الظَّهْرِ: پیٹھ کا اعلیٰ حصہ۔

القَرْدِيْنَةُ: کلام کی سختی۔ پیٹھ کے درمیان کا
خط۔ مرد کا سر۔ پہاڑ کی چوٹی۔ ج قَرَادِيْدُ.
قَرْدَسَةُ قَرْدَسَةٍ: مضبوط پاندھنا۔ قَرْدَسَ
جِرًا وَكَلْبًا: کتے کے پلے کو بلانا۔

القَرْدَسَةُ: مص۔ سختی۔ شدت۔
القَرْدَعَةُ: خوری۔ ذلت۔

القَرْدَعَةُ: گردن۔ کہا جاتا ہے "أَخَذَ
بِقَرْدَعِيْهِ" اس نے اس کی گردن پکڑ لی۔
القَرْدُوْعُ: چھوٹی جوں۔

القَرْدُوْعَةُ: پہاڑ کی دڑاڑ کا گوشہ۔
القَرْدُوْعُ: نادان عورت۔

قَرَزَةٌ (ن) قَرَزًا: کھرچنا۔ قَرَزَ التُّرَابَ
وَنَحْوَهُ: انگلیوں سے لینا۔

القَرَزُ: مص۔ ٹیلہ۔ سخت زمین۔
القَرَزُ: تیل کی شیشی۔

القَرَزَةُ: ہر چیز کی ایک مٹھی۔
القَرِيْسَةُ: دودھ سے بنایا گیا نیبر۔

القَرَزِيْحَةُ: پستہ قدم عورت۔
قَرَزَلَتِ المَرْأَةُ قَرَزَلَةً: بالوں کا جوڑا بنانا۔

القَرَزَلُ: نالائق۔ کمینہ۔
قَرَزَمَ الشَّاعِرُ وَشِعْرَهُ: ردی شعر کہنا۔

القَرَزَامُ: گھٹیا شاعر۔
المَقْرَزَمُ: حنیر۔ لیم۔ فرومایہ۔ رَجُلٌ

<p>الْقَرْضَةُ: لوگوں کی غیبت کرنے والا۔ کیزا جو اون کو چاٹ جاتا ہے۔</p>	<p>قَرْضَمُهُ: کاٹنا۔ توڑنا۔ قَرْضُهُ (ض) قَرْضًا: بدلہ دینا۔ قرض دینا۔ قَرْضُ الشَّعْرِ: شعر کہنا..... الوَادِي: وادی کو طے کرنا..... هُ: مقابلہ کرنا.....</p>	<p>الشمس آفتاب کی مکھی غائب ہوگئی۔ أَقْرَأَ وَقَرْضَةَ وَقِرَاصَ. القَرْضَةُ: روٹی کی مکھی۔ ج قَرْضُ. القَرِيضُ: کشتی کا لنگر۔</p>
<p>اس سے بڑا اور سفید زردی مائل ہوتا ہے اور چوہے خرگوش اور چڑیوں کا شکار کرتا ہے۔</p>	<p>قَرْضُ فِي سَيْرِهِ: چلنے میں دائیں بائیں ہوتا۔ الْمَكَانَ: علیحدہ ہونا۔ کہا جاتا ہے "قَرْضُ رِبَاطِهِ" یعنی مرگیا..... (وقَرْضُ) الشَّيْءِ: کاٹنا قَرْضُ الْقَارِ الثَّوْبِ: چوہے کا کپڑے کو کترنا۔</p>	<p>القِرَاصُ: ایک روئیں دار گھاس جس کے چھوٹے سے چلن ہوتی ہے۔ واحد قَرْضَاةٌ. القِرَاصُ: بابونہ اور کہا جاتا ہے "الْخَمْرُ قِرَاصٌ" یعنی بہت سرخ۔ لِجَامِ قِرَاصٍ وَقِرْوُصٍ: وہ لگام جو جاکو تکلیف دے۔</p>
<p>السِّقْرَاصُ: قینچی۔ ایک پھل ہو جب تو "قَرْضُهُ بِالْمِقْرَاصِ" بولتے ہیں اور اگر دونوں پھل ہوں تو "قَرْضُهُ بِالْمِقْرَاصِ" نہیں کہتے بلکہ قَرْضُهُ بِالْمِقْرَاصِيْنِ: کہتے ہیں۔ ج مِقْرَاصٍ.</p>	<p>قَرْضُ فَلَاتًا: مدح کرنا۔ مذمت کرنا۔ قِرْوُصٌ (س) قَرْضًا: مرنا۔ قَارَضَهُ قِرَاضًا وَمُقَارَضَةً: بدلہ دینا۔ بُرَائِي كَابُرَائِي سے مقابلہ کرنا..... هُ: فِي الْمَالِ: مضاربت کرنا۔</p>	<p>القَارِصُ: نا۔ چھڑکی مانند ایک جانور۔ القَارِصَةُ: قَارِصٌ كَامَوْثٌ: تحلیمہ قَارِصَةٌ: تکلیف دہ کلمہ۔ ج قَوَارِصُ. القِرْوُصَةُ: چر پر اہٹ۔ الْمِقْرَاصُ: تیز سے سر کی چھری۔</p>
<p>المِقْرَاصُ: تھوڑی کھیتی۔ بڑے مکے۔ شراب کے برتن۔ قَرْضَبُ الشَّيْءِ: جدا جدا کرنا..... الرَّجُلُ: خشک چیز کھانا..... اللَّحْمُ فِي الْبُرْمَةِ: گوشت کو ہانڈی میں جمع کرنا..... فَلَانٌ: دوڑنا..... اللَّحْمُ: کل کھا جاتا۔ کہا جاتا ہے "قَرْضَبُ الذَّنْبِ الشَّاةِ" بھیڑ یا سالم بکری کھا گیا۔</p>	<p>قَرْضُ صِنْتٍ: قرض دینا۔ اقْرَضَ صِنْتَهُ: قرض لینا۔ تَقَارَضَ الرَّجُلَانِ: ایک دوسرے کو بُرَائِي یا بھلائی کا بدلہ دینا۔ تَقَارَضَا الشَّعْرُ: اپنے اشعار کا پڑھنا۔ تَقَارَضَا الشَّاةَ: ہر ایک کا دوسرے کی تعریف کرنا۔ کہا جاتا ہے "تَقَارَضَ الْقِرْوَانِ النَّظْرُ" یعنی ہر ایک نے دوسرے کو کڑی نگاہ سے دیکھا۔</p>	<p>المقْرَصُ: مفتح..... مِنَ الْحِلْيَةِ وَغَيْرِهَا: مکھی کے مانند گول زیور۔ القِرَاصُ: ایک کانٹے دار بھری جو کہ کھائی جاتی ہے۔ القِرْصَانُ: بحری ڈاکو (دخیل) القِرَاصِيَا: بمعنی قرواسیا۔ قَرْضَبَةُ قَرْضَبَةُ: کاٹنا۔</p>
<p>القِرْصَبُ: بھوسی جو چھٹی میں بیج رہے اور پھینک دی جائے۔ القِرْصَابُ والقِرْصُوبُ: تلواریں۔ چور۔ خشک چیز کو کھانے والا۔ فقیر۔ ج قَرْضَابَةُ.</p>	<p>انْقَرَضَ: ختم ہونا۔ كُنَّا الْقَوْمُ: سب کا ہلاک ہو جانا اور کسی کا باقی نہ رہنا۔ اقْتَرَضَ: مِنْهُ: قرض لینا..... عَرْضُهُ: غیبت کرنا۔ اسْتَقْرَضَ مِنْهُ: قرض مانگنا۔</p>	<p>القِرْصَابِيَا: گلاب کی اقسام سے ایک پودا جس کے پھل سیاہ ہوتے ہیں۔ قَرْضَعُ قَرْضَعَةً: سگڑنا۔ پوشیدہ ہونا۔ بخل کی وجہ سے تنہا کھانا۔ باریک لکھنا۔ اور سطروں کو قریب قریب کرنا..... فِي بَيْتِهِ: بیٹھنا اور مٹنا..... زَيْدًا فِي بَيْتِهِ: بیٹھنا۔ تَقَرْضَعَتِ الْمَرْأَةُ: بڑی چال چلنا۔ اقْرَضَعَ الرَّجُلُ: کپڑوں میں پلٹنا۔ سگڑنا اور چھیننا۔</p>
<p>القِرْصَابُ: جو کچھ ملے اس کو کھا جانے والا۔ ج قِرْصَابِ.</p>	<p>قَرْضَمَ الشَّيْءِ: کاٹنا۔ لے کر چل دینا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ يَقْرَضُهُ كَمَثَلِ شَيْءٍ" وہ ہر چیز کو لے لے کے چل دیتا ہے۔ قَرَطَ (ن) قَرْضًا: السُّكْرَاتُ وَنَحْوَهُ: باریک باریک کاٹنا۔ قَرَطَ (س) قَرْضًا: التَّيْسُ: کٹے ہوئے کانوں والا ہونا۔ صفت اقْرَطَ.</p>	<p>القِرْصَاعَةُ: ایک خادور اور رخت جس کو شوکہ ابراہیم بھی کہتے ہیں اور اس کی چند قسمیں ہیں۔ ایک قسم سفید ہے جس میں پتے زیادہ اور کانٹے تیز ہوتے ہیں۔ القِرْصَاعَةُ: ایک قسم کی ترکاری جس میں سرکہ اور زیتون کا تیل ملا کر کھاتے ہیں۔</p>
<p>قَرْضَمَ الشَّيْءِ: لڑکی کو بالی پہنانا..... القِرْصُ: گھوڑے کو لگام لگانا..... السَّرَاجُ: چراغ سے گل گرانا..... عَلِي الرَّجُلِ: تھوڑا</p>	<p>اقْتَرَضَ: قرض دینا۔ اقْرَضَ صِنْتَهُ: قرض لینا..... عَرْضُهُ: غیبت کرنا۔ اسْتَقْرَضَ مِنْهُ: قرض مانگنا۔ القَرْضُ والقِرْوُصُ: اچھا یا بُرا عمل جو پیش کیا جائے جو مال تم کسی کو اس شرط پر دو کہ وہ وقت معینہ پر تم کو واپس کر دے۔ ج قِرْوُصٌ.</p>	<p>قَرْضَمَ الشَّيْءِ: لڑکی کو بالی پہنانا..... القِرْصُ: گھوڑے کو لگام لگانا..... السَّرَاجُ: چراغ سے گل گرانا..... عَلِي الرَّجُلِ: تھوڑا</p>
<p>قَرْضَمَ الشَّيْءِ: لڑکی کو بالی پہنانا..... القِرْصُ: گھوڑے کو لگام لگانا..... السَّرَاجُ: چراغ سے گل گرانا..... عَلِي الرَّجُلِ: تھوڑا</p>	<p>قَرْضَمَ الشَّيْءِ: لڑکی کو بالی پہنانا..... القِرْصُ: گھوڑے کو لگام لگانا..... السَّرَاجُ: چراغ سے گل گرانا..... عَلِي الرَّجُلِ: تھوڑا</p>	<p>قَرْضَمَ الشَّيْءِ: لڑکی کو بالی پہنانا..... القِرْصُ: گھوڑے کو لگام لگانا..... السَّرَاجُ: چراغ سے گل گرانا..... عَلِي الرَّجُلِ: تھوڑا</p>
<p>قَرْضَمَ الشَّيْءِ: لڑکی کو بالی پہنانا..... القِرْصُ: گھوڑے کو لگام لگانا..... السَّرَاجُ: چراغ سے گل گرانا..... عَلِي الرَّجُلِ: تھوڑا</p>	<p>قَرْضَمَ الشَّيْءِ: لڑکی کو بالی پہنانا..... القِرْصُ: گھوڑے کو لگام لگانا..... السَّرَاجُ: چراغ سے گل گرانا..... عَلِي الرَّجُلِ: تھوڑا</p>	<p>قَرْضَمَ الشَّيْءِ: لڑکی کو بالی پہنانا..... القِرْصُ: گھوڑے کو لگام لگانا..... السَّرَاجُ: چراغ سے گل گرانا..... عَلِي الرَّجُلِ: تھوڑا</p>
<p>قَرْضَمَ الشَّيْءِ: لڑکی کو بالی پہنانا..... القِرْصُ: گھوڑے کو لگام لگانا..... السَّرَاجُ: چراغ سے گل گرانا..... عَلِي الرَّجُلِ: تھوڑا</p>	<p>قَرْضَمَ الشَّيْءِ: لڑکی کو بالی پہنانا..... القِرْصُ: گھوڑے کو لگام لگانا..... السَّرَاجُ: چراغ سے گل گرانا..... عَلِي الرَّجُلِ: تھوڑا</p>	<p>قَرْضَمَ الشَّيْءِ: لڑکی کو بالی پہنانا..... القِرْصُ: گھوڑے کو لگام لگانا..... السَّرَاجُ: چراغ سے گل گرانا..... عَلِي الرَّجُلِ: تھوڑا</p>

اور عیب بیان کیا "قَرَعَ سَاقَهُ لَلْأَمْرِ" وہ کام کے لئے فارغ ہوا..... الشئ: پسند کرنا..... السَّهْمُ الغَايَةُ: تیر کا نشانہ پر لگانا..... هُ أَمْرٌ: اچانک پیش آنا..... بَسْتَه: ندامت سے دانت پینا.....

قَرَعَ (ن) قَرَعًا فُلَاتًا: قرعہ میں غالب آنا..... قَرَعَ عَلَيْهِ: تیر اندازی میں مغلوب ہونا.....

قَرَعَ (س) قَرَعًا وَقَرَعًا الْمَكَانُ: خالی ہونا..... مَاءُ الْبُسْرِ: پانی کا ختم ہونا..... الرَّجُلُ: تیر اندازی میں مغلوب ہونا..... مشورہ قبول کرنا..... قَرَعًا الرَّجُلُ: بھنجا ہونا..... قَرَعَ فُلَاتًا: جھڑکی دینا..... الْقَوْمُ: رنجیدہ کرنا..... الْفَصِيلُ: اونٹ کے بچے کی چھٹی کا علاج کرنا..... الشَّعْرُ: بال کا نشانہ.....

قَارَعَهُ مُقَارَعَةً وَقِرَاعًا: باہم قرعہ اندازی کرنا..... قَارَعَهُ فَقَرَعَهُ: اس نے اس سے قرعہ اندازی کی اور غالب آیا.....

قَارَعَ وَتَقَارَعَ الْقَوْمُ: قرعہ ڈالنا بعض کا بعض کو تلوار مارنا..... بِالرِّمَاحِ: آپس میں تیز بازی کرنا.....

أَقْرَعَ: بازار ہنا..... مشورہ قبول نہ کرنا..... غَنَهُ: رکنا..... الْمَسَافِرُ: منزل سے قریب ہونا..... الْغَائِصُ وَالْمَاتِحُ: غوط خور کا زمین کی تک پہنچنا..... الشَّرُّ: ہمیشہ رہنا..... نَعْلَهُ: جوتے میں موٹا پیوند لگانا..... الْحَبِيبُ: گدھوں کا ایک دوسرے کو دہلتی مارنا..... الشئ: طاقت رکھنا..... ذَارَهُ آخِرًا: اینٹوں کا فرش لگانا.....

فُلَاتًا: روکنا..... الشئ الْحَقُّ: لوٹنا..... الرَّجُلُ: عمدہ مال دینا..... الذَّابَّةُ بِالْحِمَا: جانور کو لگام سے کھینچ کر روکنا..... بَيْنَ الْقَوْمِ: قرعہ ڈالنا.....

تَقَرَعَ وَانْقَرَعَ: اُلْتَنَا پلٹنا..... انْقَرَعَ عَنِ الْأَمْرِ: رکنا..... عَنِ الْحَقِّ: بازار ہنا..... تَقَرَعَ الْجِلْدُ: گھبے پن کی وجہ سے کھال کا پھل جانا.....

الْقِرْطَعُ: جوں جو اونٹ کے بدن میں پیدا ہوئے.....

الْقِرْطَفُ وَالْقِرْطَفَةُ: جملی چادر..... قِرْطَفَهُ قِرْطَفَةً: کرتا پہنانا..... تَقَرَّطِقُ: کرتا پہننا..... الْقِرْطَقُ: کرتا.....

قِرْطَلَهُ فِي الْمَاءِ: پانی میں ڈبانا..... الْقِرْطَلُ: ٹوکری..... كُنْدِيَا ج قِرَاطِلُ: الْقِرْطَلَةُ: گدھے کا ایک جانب کا بوجھ..... الْقِرْطَالَةُ: پالان کے نیچے کا خوگیر..... ج قِرْطَالُ.....

قِرْطَمَ قِرْطَمَةً الشئ: کاٹنا..... الطَّايِرُ: قرطم کے دانے ڈالنا..... الْقِرْطَمُ وَالْقِرْطَمُ وَالْقِرْطَمُ وَالْقِرْطَمُ: عصر کا دانہ..... الْقِرْطَمَانُ: ایک قسم کا غلہ جو ماش کے مشابہ ہوتا ہے..... خِفَاتٌ مَقْرُومَةٌ: کناروں پر مضبوط سلاہوا چرمی موزہ جو پتھر کو توڑ دے..... قِرْطَ (ض) قِرْطَا: القِرْطُ: درخت سلم (جو کیکر کے درخت کی مانند ہوتا ہے) کے پتے چننا..... الْاَدْنِيمُ: درخت سلم کے پتوں سے دباغت دینا..... قِرْطَ (س) قِرْطَا: ذلت کے بعد سردار ہونا..... قِرْطَةً تَقْرِيطًا: زندہ کی جھوٹی یا گچی مدح کرنا..... الْقِرْطُ: درخت سلم کے پتے..... واحد قِرْطَةً. الْقِرَاطُ: درخت سلم کی پتیوں کا بیچنے والا.....

قَرَعَ (ف) قَرَعًا: البَابُ: دروازہ کھٹکانا..... اور اسی سے مثل ہے "مِنْ قَرَعَ بَابًا وَبَحَّ وَبَحَّ" جو شخص دروازہ کھٹکائے اور اصرار کرے وہ داخل ہوتا ہے..... السَّرْجُلُ: مارنا..... کہا جاتا ہے "قَرَعَ زَانَةً بِالْعَصَا" اس نے اس کے سر پر لٹھی ماری..... و "قَرَعَ صَفَاتَهُ" اس نے اس کی مقصدت کی

تھوڑا دینا..... إِلَيْهِ رَسُولًا: جلدی بھیجنا..... تَقَرَّطَتِ الْمَرْأَةُ: عورت کا بالی پہنانا..... الْقِرْطُ: گندنا کی ایک قسم..... الْقِرْطُ: بالی..... ایزرنگ..... کان کا زیور..... ج أَقْرَاطٌ وَقِرَاطٌ وَقِرْطُوطٌ وَقِرْطَةٌ. الْقِرْطُ: آگ کا شعلہ..... سخن..... ایک گھاس ہے جو اسپت کے مشابہ ہے ثریا (بنا برتھیمہ) وَالْقِرْطُ مِنَ الْمَوْزِ أَوْ الْبَلْحِ عِنْدَ الْعَامِيَةِ: کیے وغیرہ کی پھلیوں کا گچھا..... الْقِرْطَةُ وَالْقِرْطَةُ: مینڈھے کے کان کا کٹ کر لگتا ہوا حصہ..... الْقِرَاطُ: چراغ..... چراغ کا شعلہ..... وَالْقِرَاطَةُ: بتی کا کل..... الْقِرَاطُ وَالْقِرَاطُ: نصف دانق اور بقول بعض دینار کا ۳/۶ اور بقول بعض دینار کے دسویں حصہ کا آدھا..... کسی چیز کا چوبیسواں حصہ..... فِي الْمَسَاحَةِ: انگلی کی چوڑائی کے برابر..... (دیل) الْقِرَاطُ عِنْدَ الْيُونَانِ: دانہ خرئوب..... نصف دانق قِرَاطُ..... الْقِرَاطُ: دانہ ترمندی..... الْقِرَاطُ الْيُونَانِي: ایک مرہم جس کا عہاد کیا جاتا ہے (دیل) قِرْطَبَةُ قِرْطَبَةٌ: گدی کے بل بچھاڑنا..... قِرْطَبُ الْجَزُورِ: ہڈیوں کا کاٹنا..... الرَّجُلُ: غصبتاں ہونا..... تیز دوڑنا..... بھاگنا..... تَقَرَّطَبُ: گدی کے بل گرنا..... الْقِرَاطِبُ: بہت کاٹنے والا..... الْقِرْطَبِيُّ: تلوار..... قِرْطَسٌ: نشانہ لگانا..... تَقَرَّطَسَ الرَّجُلُ: ہلاک ہونا..... الْقِرْطَسُ وَالْقِرْطَسُ وَالْقِرْطَسُ وَالْقِرْطَسُ: کاغذ..... الْقِرْطَسُ: نشانہ..... ایک قسم کی مصری چادر..... تحریر جو کچھ بھی ہو..... سفید کشیدہ قامت لڑکی..... جوان اونٹنی..... ج قِرَاطِسُ..... الْقِرْطَيْطُ وَالْقِرْطَيْطَةُ: تھوڑی چیز..... الْقِرْطَيْطَةُ: بلا دھنی.....

اَلْقَسْرَعُ الشَّيْ: اختیار کرنا۔ پسند کرنا.....
النَّارُ: آگ روشن کرنا..... اَلْقَوْمُ عَلِيٌّ
بگذا: قرعہ ڈالنا۔
اِسْتَقْرَعَ الحَافِرُ: کھر کا سخت ہونا.....
الْكُرْشُ: اوجھ کا سخت ہونا۔
الْقَرْعُ: مہم۔ کدو۔ واحد قَرْعَةٌ.
الْقَرْعَةُ: قَرْعُ: کا اسم مرثہ۔
اَلْقَرْعُونُ: با دام سخت ہونے سے پہلے۔
(سریانی لفظ)
اَلْقَرْعُ: مہم۔ سفید چھنی جو اونٹ کے
بچوں کو ہوتی ہے۔ گھنچا پن۔ سبقت۔ اونٹوں
سے خالی ان کی خواہگاہ۔ وہ بچہ نہیں جن میں
صرف گھاس ہو اور دوسری نباتات نہ ہو۔
کھجلی۔
اَلْقَرْعُونَةُ: مٹی کا پرانا برتن۔
اَلْقَرْعَةُ: ڈھال۔ سر میں تھج کی جگہ۔ پھلی
ہوئی تلی کا توشہ دان۔ اونٹوں سے خالی ان
کی خواہگاہ۔
اَلْقَرْعَةُ: حصہ۔ توشہ دان۔ اَلْقَاءُ اَلْقَرْعَةُ:
قرعہ اندازی..... اَلْقَرْعَةُ عَمَدَ مَالٍ:
الْقَرْعَةُ: گھر میں سب سے عمدہ جگہ۔
اَلْقَرْعُ: نہ سونے والا۔ مشورہ قبول کرنے
والا۔ تباہ شدہ ناخن۔ اَرْضُ قَرْعَةٍ: بجز
زمین۔
القارعة: قارع کا مؤنث۔ قیامت۔ قارعة
الطریق: راستہ کا اعلیٰ حصہ۔ مصیبت۔
ہلاک کرنے والی مصیبت۔ ج قَوَارِعُ.
قَوَارِعُ الْقُرْآنِ: وہ آیتیں جن کے پڑھنے
سے شیاطین و جنات سے انسان محفوظ رہے
کہا جاتا ہے "قَرَعَتْهُمْ قَوَارِعُ الدَّهْرِ" ان
پر زمانہ کی سخت مصیبتیں نازل ہوئی و "نَعُوذُ
بِاللَّهِ مِنْ قَوَارِعِ فُلَانٍ" ہم فلاں کی زبان
کی تیزی سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔
اَلْقَرْعُ: اسم مبالغہ۔ ڈھال۔ بہت سخت۔
مؤنث۔ قَرْعَةٌ.
اَلْقَرْعُ: قرعہ اندازی کرنے والا۔ قرعہ
اندازی میں غالب۔ قرعہ اندازی میں

مغلوب۔ سردار جوان اونٹ۔ کہا جاتا ہے
"فُلَانٌ قَرِيعٌ دَهْرُهُ" فلاں انتخاب زمانہ ہے
"هُوَ قَرْعٌ كَجَيْبِيَّةٍ" وہ فوج کا سردار و
کمانڈر ہے۔ "فَصَيْلٌ قَرْيَعٌ" پھنسی والا
اونٹ کا بچہ۔ ج قَرْعُ عَلِيٌّ.
اَلْقَرْعُ: کم پانی والا کنواں۔ بکری جس پر
قرعہ اندازی کریں۔
اَلْقَرْيَعُ: مبالغہ۔ سردار۔
اَلْاَقْرَعُ: گھنچا۔ جَيْبٌ اَقْرَعُ: بے نباتات کا
پھاڑ۔ عَوْذٌ اَقْرَعُ: چھال اتری ہوئی
لکڑی۔ تَرَسٌ اَقْرَعُ: سخت ڈھال۔ قَدْحٌ
اَقْرَعُ: بنگلری سے مانچھا ہوا تیر کہ جس میں
نقوش وغیرہ ظاہر ہو جائیں۔ اَلْاَقْرَعُ: عمدہ
لوہے کی تلوار۔
مِنَ السَّحَابَاتِ: زہریلا سا پ کدز ہر کی وجہ
سے اس کے سر کے بال گر گئے ہوں۔
مؤنث۔ قَرْعَاءُ ج قَرْعٌ وَقَرْعَانُ.
اَلْقَرْعَاءُ: اَقْرَعُ: کا مؤنث۔ مصیبت۔ گھر کا
سجمن۔ راستہ کا اعلیٰ حصہ۔ اَرْضُ قَرْعَاءُ:
چری ہوئی زمین۔
اَلْقَرْيَعَا: زمین جس کے کناروں پر پیداوار
ہو اور درمیان میں خالی ہو۔
اَلْمِقْرَعُ: مٹی یا کھجور کھانے کا برتن۔
اَلْمِقْرَعَةُ: کوڑا۔ ہر وہ چیز جس سے کھٹکٹایا
جائے۔ ج مقَارِعُ.
اَلْمِقْرَعُ مِنَ النَّخِيلِ: وہ گھوڑا جس کو لگام
کھینچ کر روکا جائے اور وہ اپنے سر کو بلند
کرے۔
اَلْمِقْرَاعُ: پتھر توڑنے کی کدال۔
اَلْمَقْرُوعُ: منع۔ سردار۔
اَلْقَرْعَاغُولُ: راستہ کا محافظ۔ تاری لفظ ہے
اور اس کے لئے عربی لفظ خَفِيضٌ ہے۔
اَقْرَعَبٌ: سردی وغیرہ سے سہٹا۔
قَرْفٌ (ض) قَرْفًا لِعِبَائِهِ: کمائی کرنا.....
عَلَى الْقَوْمِ: ظلم کرنا۔ بغاوت کرنا۔ حد سے
گزرنا..... الرُّجُلُ: جموت بولنا۔ جموت ج
ملانا..... الشَّيْ: چھیلنا۔ ملانا..... وَقَرْفٌ)

فُلَانًا بَغْدًا: عیب لگانا۔ تہمت رکھنا.....
اَلْقَرْحَةُ: زخم کو چھیلنا۔
قَرْفٌ (س) قَرْفًا فُلَانٌ الْمَرِيضُ: مرض
کے قریب ہونا۔
قَارَفَةٌ مُقَارَفَةٌ وَقِرَافًا: قریب ہونا۔ جماع
کرنا۔ قَارَفَ الذَّنْبُ: گناہ میں ملوث ہونا۔
اَقْرَفٌ: لُءُ: قریب ہونا۔ اختلاط کرنا۔
اَقْرَفُهُ: بُرَائِي سے یاد کرنا۔ اَقْرَفٌ بِهِ: تہمت
لگوانا..... اَلْجَرْبُ الصَّحَاخُ: بیماری کا
چھوت لگانا۔
تَقْرَفُ: الجُرْحُ: زخم کا چھیل جانا۔
اَقْرَفٌ: کمائی کرنا..... الذَّنْبُ: گناہ کر لینا
..... اَلْمَالُ: جمع کرنا اور کہا جاتا ہے "قَرَفْتُهُ
بِالْأَمْرِ فَاقْرَفْتُ بِهِ" میں نے اسے عیب لگایا
اور اسے عیب لگ گیا۔
اَلْقَرْفُ: ایک قسم کے چمڑے کا برتن جس کو
انار کے چھلکوں سے دباغت دیتے ہیں۔
گہرا سرخ۔ ج قِرَافٌ وَقَرْوَفٌ.
اَلْقَرْوَفُ: درخت کی چھال۔ ہر چھال کو قَرْوَفٌ
کہتے ہیں اور اسی سے ہے "قِرَافُ الرُّمَّانِ"
روٹی کا چھلکا جو تنور میں رہ جائے۔ زمین
سے اُکھیڑی ہوئی چیز۔ ناک پر خشک ریخت
ج قَرْوَفٌ: واحد قَرْوَفَةُ اَلْقَرْوَفُ: لائق۔
مناسب کہا جاتا ہے "هُوَ قِرَفٌ بَغْدًا" وہ
اس کے لائق ہے۔
اَلْقَرْوَفُ: مرض کا دوبارہ ہونا۔ میل جول۔
تہمت بیماری کی چھوت۔ کہا جاتا ہے "هُوَ
قَرْوَفٌ اَوْ قِرَفٌ بَغْدًا" وہ اس کے لائق
ہے۔ اَلْقَرْوَفُ: گہرا سرخ والا۔ کہا جاتا ہے
"أَزَاكُ أَحْمَرٌ قَرْوَفًا" میں تم کو بہت سرخ
دیکھ رہا ہوں۔
اَلْقَرْوَفَةُ: کمائی۔ چھال۔ انار کے چھلکے۔ دار
چینی کی ایک قسم جس کو تاج کہتے ہیں۔
تہمت۔ جس کے اوپر تہمت لگاؤ۔ کہا جاتا
ہے "فُلَانٌ قِرْفَسِيٌّ" فلاں وہ شخص ہے جس پر
میں نے تہمت لگائی ہے و "تَسُو فُلَانٌ
قِرْفَسِيٌّ" بنو فلاں وہ لوگ ہیں جن کے متعلق

میرا گمان ہے کہ میرا مطلوب ان کے پاس ہے۔

السَّرْوُف: بہت ظلم کرنے والا۔ بڑا بے انصاف۔ توشدان۔ ج قُوف و قُوف۔
السَّرْفِي والمُسْرِف: وہ شخص جس کے اندر سرخی چمکتی ہو۔ السُّقْرِف: خیس۔ حقیر۔
جس کی ماں عربیہ ہو اور باپ غیر عرب۔
وَجْهٌ مُسْرِفٌ: بد صورت چہرہ۔
الاقْرَف: بہت سرخی والا۔
القُرْأَة: درخت کی چھال۔
السُّقْرِف: وہ جگہ جہاں سے چھال اُتاری گئی ہو۔

الجُفْرَاف: بہت گناہوں کا ارتکاب کرنے والا۔ زَجْلٌ مَسْفُوفٌ: تپلی کردالا۔ سبک مرد۔
قُرْفُصَةٌ قُرْفُصَةٌ: پاؤں کے نیچے دونوں ہاتھ باندھنا۔
تَقْرُقُصْتُ العَجُوزُ: بڑھیا کا کپڑوں میں پلٹنا۔
القُرْفُصِي: مثلثة الفاء والقُرْفُصَاء والقُرْفُصَاء: اکڑوں بیٹھنا اور ہاتھوں کو ناگوں کے گرد باندھنا۔ کہا جاتا ہے "قَعَدَ القُرْفُصِي او القُرْفُصَاء" وہ اکڑوں بیٹھا۔
القُرْفُصِي: مضبوط۔
القُرْفُصَةُ: ڈاکو۔
قُرْفَطُ الرَّجُلِ: چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلنا۔
اِقْرُقَطُ سَمْتًا: السُّقْرِفَل: مِنَ الاطعمَةِ: لوگ سے خوشبودار کیا ہوا۔

قُرْفُفَت الحِمَامَةُ او الذَّجَاجَةُ: کبوتر کا غمزغون کرنا۔ مرغی کا کڑکڑانا..... البَطْنُ: پیٹ سے گڑگڑانا۔ الرَّجُلُ فِي جِحْبِهِ: بہت زور سے ٹھٹھا مارنا۔ الشَّرَابُ لِي حَلْقِي: آواز کرنا۔
القُرْفُورَةُ: مہس۔ کبوتر کی آواز۔ بہت زور کی ہنسی۔ چہرہ کی کھال..... والقُرْفُورُ: پست نرم زمین۔ ج قُرَاقِو۔
القُرْفَار: اونٹ کی بڑبڑاہٹ۔
القُرَاقِرُ والقُرَاقِرِي: اچھی آواز سے حدی پڑھنے والا۔

القُرَاقِرَةُ: بہت بک بک کرنے والی عورت..... والقُرَاقِرَةُ: اونٹ کا جھاگ جو مستی کے وقت نکلتا ہے۔

القُرَاقِرَةُ: لمبی گردن کا شیشے کا کپ۔
القُرْفُورُ: بڑی کشتی۔ ج قُرَاقِير۔

قُرْقَسٌ: الكَلْبُ وبِه: کتے کو قُرْقُوس کہہ کے بلانا۔
القُرْقِيسُ: چمھر کے بچے۔
القُرْقُوسُ: کشادہ میدان۔
القُرْقُورُ: بکری کا چھوٹا بچہ۔
قُرْقَشٌ: سخت چیز کھانا۔

قُرْقُوقًا قُرْقُوقًا: ہموار جگہ میں چلنا۔
القُرْقُوقُ: بڑی جڑ۔ عادت۔ حقیر لوگ۔
جماعت۔ کہا جاتا ہے "جساء قسرق من الناس" لوگوں کی ایک جماعت آئی۔ ج

القُرَاقُ: القُرْقُوقُ: ایک کھیل ہے۔ خط بھیج کر گونیاں رکھ کر کھیلتے ہیں۔ خط کی صورت یہ ہے:

القُرْقُوقُ: قرق زدہ۔

القُرْقُوقُ: زیادہ شور سے بولنا۔

القُرْقُوبُ: ایک چھوٹا پرندہ۔

(.....) والقُرْقُوقُ والقُرْقُوقُ: ہموار جگہ۔

القُرْقُودَانِ والقُرْقُودُونَ: سنبھال۔

قُرْقُوقُورَةُ: البَجِيرُ: اونٹ کا بڑبڑانا۔

قُرْقُودُ النُّجُزِ: روٹی خشک ہونا۔ (سریانی لفظ)

قُرْقُوت الحِمَامَةُ او الذَّجَاجَةُ: کبوتر کا غمزغون کرنا۔ مرغی کا کڑکڑانا..... البَطْنُ: پیٹ سے گڑگڑانا۔ الرَّجُلُ فِي جِحْبِهِ: بہت زور سے ٹھٹھا مارنا۔ الشَّرَابُ لِي حَلْقِي: آواز کرنا۔

القُرْقُورَةُ: مہس۔ کبوتر کی آواز۔ بہت زور کی ہنسی۔ چہرہ کی کھال..... والقُرْقُورُ: پست نرم زمین۔ ج قُرَاقِو۔
القُرْفَار: اونٹ کی بڑبڑاہٹ۔
القُرَاقِرُ والقُرَاقِرِي: اچھی آواز سے حدی پڑھنے والا۔

القُرَاقِرَةُ: بہت بک بک کرنے والی عورت..... والقُرَاقِرَةُ: اونٹ کا جھاگ جو مستی کے وقت نکلتا ہے۔

القُرَاقِرَةُ: لمبی گردن کا شیشے کا کپ۔
القُرْفُورُ: بڑی کشتی۔ ج قُرَاقِير۔

قُرْقَسٌ: الكَلْبُ وبِه: کتے کو قُرْقُوس کہہ کے بلانا۔
القُرْقِيسُ: چمھر کے بچے۔
القُرْقُوسُ: کشادہ میدان۔
القُرْقُورُ: بکری کا چھوٹا بچہ۔
قُرْقَشٌ: سخت چیز کھانا۔

قُرْقُوقًا قُرْقُوقًا: ہموار جگہ میں چلنا۔
القُرْقُوقُ: بڑی جڑ۔ عادت۔ حقیر لوگ۔
جماعت۔ کہا جاتا ہے "جساء قسرق من الناس" لوگوں کی ایک جماعت آئی۔ ج

شکر ملا کر پکایا جائے تو میٹھی نکلیے۔ نرم آنا اور مغز کے ساتھ ملا کر گھی میں تلی ہوئی شے۔ نرم ہڈیاں۔

قُرْقُصٌ: بالجمرد: کتے کے پلے کو بلانا۔

القُرْقُوصُ: کتے کا پلا۔ ج قُرَاقِيسُ.

قُرْقُوعَةٌ قُرْقُوعَةٌ: کھنکھانا۔

قُرْقُوعٌ قُرْقُوعَةٌ مِنَ البَرْدِ: کچھکی زدہ ہونا.....

قُرْقُوعَةُ البَرْدِ: کچھکی ڈالنا۔

الرَّجُلُ فِي الضَّحْكَ وَالْحِمَامُ فِي الهَيْدِيْرِ: آدمی کا ہنسنے میں اور کبوتر کا غمزغون کرنے میں زیادتی کرنا۔

السُّقْرِفُ: شراب۔ شہنا پانی.....

القُرْقُوفُ: ایک چھوٹا سا پرندہ۔

القُرْقُوفُ: درہم۔ شراب۔

دِيكٌ قُرَاقِيفٌ: بلند آواز مرغ۔

القُرْقُوقُ والقُرْقُوقُ: بے آستین کا کرتہ ج قُرَاقِيل.

قُرْقُمٌ: الصَّبِي: بچے کو بڑی خوراک دینا۔

السُّقْرِفُمُ: وہ جو جوان نہ ہو اور قوت نہ پکڑ سکے۔

قِرْقِي: ایک چوکنا آبی پرندہ۔

قُرْمٌ (م) قُرْمًا وَقُرْمًا وَمَقْرَمًا وَقُرْمَانًا وَمَقْرَمًا: اس کی ملاقات کا میں شائق ہوا۔

قُرْمٌ: الكَمَامُ والسَّبِي: تموز اچھوڑا کھانا شروع کرنا۔

قُرْمٌ (ن) قُرْمًا: النَسِي: چھیلنا.....

الطَّعَامُ: کھانا..... الرَّجُلُ: گالی دینا۔ قید کرنا۔

قُرْمٌ (س) قُرْمًا: اِلَى اللِّحْمِ: گوشت کا خواہش مند ہونا۔ کہا جاتا ہے "قُرْمْتُ اِلَى لِقَائِهِ" اس کی ملاقات کا میں شائق ہوا۔

قُرْمَةٌ: کھانا کھانا۔ قُرْمٌ وَقُرْمٌ الفِضْلُ: ساڑھ بننے کے لئے کام اور سواری سے فارغ رکھنا۔

اِسْتَقْرَمَ: البَحْرُ قَبْلَ اَوَانِهِ: وقت سے پہلے ساڑھ بنا۔

القُرْمُ: مہس۔ اونٹ کی ناک پر داغ جوئے کے تیر کی علامت۔ ساڑھ جو سواری اور کام

سے فارغ رکھا جائے۔ سردار عظیم۔ ج
قُرُون۔

القُرْمَةُ والقُرْمَةُ: اونٹ کی ناک کی کٹی ہوئی
کھال۔

القُرْمَةُ والقُرْمَام: اونٹ کی ناک کاٹنے کا
موتق القُرْمَام: سرخ پردہ یا پارک پیرا۔

السَّرَامَةُ: اونٹ کی ناک سے کٹا ہوا چھوٹا
ٹکڑا۔ روٹی کا وہ حصہ جو تھور میں لگا ہوا رہ
جائے۔ عیب۔ اونٹ کا سینہ۔

الاقْرَمُ مِنَ الْجَمَال: اونٹ جو باندھنا نہ
جائے۔ ناک پر داغ لگا ہوا۔ مَوْنُثُ قُرْمَاء.
ج قُرْم۔

القُرْم: ایک گھاس جو سفیدی اور موتائی میں
چنار کے درخت کی مانند ہوتی ہے۔

قُرْمَدُ قُرْمَلَةِ الْكِتَاب: پارک لکھنا۔
قریب قریب لکھنا۔ قُرْمَدُ فِي لَمَشِي:

قریب قریب قدم رکھنا۔ الشَّيْءُ قُرْمَدًا
طلا کرنا (دیکھئے قُرْمَد)

القُرْمِد: ہر وہ چیز جس کو زینت کے لئے کسی
پر لگا میں۔ جیسے زعفران اور گج وغیرہ۔ پختہ
تھمبیری۔ اینٹ (دخیل)

القُرْمُود: پہاڑی بکرا۔ پہاڑی بکری کا بچہ
ج قُرْمِيد۔

القُرْمِيد: اینٹ جس سے پلاستر کیا جائے
جیسے گج وغیرہ واحد قُرْمِيدَةٌ (دخیل)

القُرْمِيدَةُ: پہاڑی بکری ج قُرْمِيد۔
القُرْمُوز: سرخ رنگ۔ عِنْدَ الْأَسَاكِفَةِ: وہ

کھال جو سرخ رنگ سے رنگی ہوئی ہو۔
الْقُرْمُوزِيَّةُ: کیتروں کی ایک قسم۔

القُرْمُوزِيُّ: جو سرخ رنگ کا ہو۔
قُرْمُوشَةُ: بگاڑنا۔ فاسد کرنا۔ قُرْمُوشَ الشَّيْءِ:

جمع کرنا۔
القُرْمُوشُ والقُرْمُوشُ والقُرْمُوشُ مِنَ النَّاسِ:

طرح طرح کے لوگ۔
قُرْمُوصٌ وَقُرْمُوصٌ: سردی زدہ آدمی کا

گرمی حاصل کرنے کے لئے گڑھے میں
داخل ہونا۔

.....السَّرَامِيصُ: گرمی حاصل کرنے کے
لئے گڑھے بنانا۔

السَّرَامُوصُ والقُرْمُوصُ: اندر سے چوڑا
اور تنگ منہ کا گڑھا جس میں سردی زدہ گرمی

حاصل کرتا ہے۔ بھوبھل میں روٹی پکانے کی
جگہ۔ کبوتر کا گھونسلا۔ ج قَسْرَامِيصُ.

القَسْرَامُوصُ: شکاری کا گڑھا۔ زمین میں
پرندہ کا گھونسلا۔

قَسْرَمَطٌ قُرْمَطَةُ الْكِتَاب: پارک اور قریب
قریب لکھنا۔ فِسِي خَطْوِهِ: قریب قریب

قدم رکھ کر چلنا۔
القَسْرَامُوصُ: ایک قسم کی مچھلی۔ گہریلا کی

گولی۔ ج قَسْرَامِيصُ
السَقْرَامِيصَةُ: شیعوں کا ایک عالی فرقہ واحد

قُرْمِيصِي.
قُرْمَلَةٌ: پیچاڑنا۔

القَسْرَمَلُ: بے کانٹوں کا ایک کمزور درخت
واحد قُرْمَلَةٌ.

القَسْرَمِلُ: دو کوہان والا اونٹ۔ بہت اون
والا اونٹ کا بچہ۔ ج قُرَامِل.

القَسْرَامِلُ والقَسْرَامِيصِلُ مِنَ الشَّجَرِ
وَالضُّوْفُ: بالوں یا اون کا بنا ہوا عورت کا

موہاف۔
قَرْنٌ (ض) قُرْنَا الشَّيْءِ وَبِالشَّيْءِ:

باندھنا۔ ملانا۔ القُرُونُ: دو بیلوں کو ایک
جوئے میں باندھنا۔ البَحْيُونُ: دو اونٹوں

کو ایک رشتی میں باندھنا۔
قَرْنٌ (ن) قِرْنَا الْقُرْمُوسُ: دوڑنے میں

پچھلی ٹانگوں کا اگلی ٹانگوں کی جگہ میں پڑنا
.....بَيْنَ الشَّيْءِ وَالشَّيْءِ: جمع کرنا۔

قَرْنٌ (س) قَرْنَا: ملی ہوئی بھنوں والا
ہونا۔ صفت اقْرَن. قَرْنٌ ذُو الْقَرْنِ: بڑے

سینگ والا ہونا۔
قَرْنُهُ: جمع کرنا۔ باندھنا۔ کہا جاتا ہے

"قَرْنَا الْأَسْرَارِي فِي الْجِبَالِ" قیدی
رسیوں میں باندھے گئے۔
قَارَنَهُ قَرَانًا وَمُقَارَنَةً: ساتھی ہونا۔ ملنا۔

اقْرَنَ. بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ: جمع کرنا۔ (قَرْنٌ: ص) (ہے)

.....السَّرَجَلُ: دو تیر چلانا۔ دو قیدوں کو ایک
رشتی میں لانا۔ سیٹنگ والے مینڈھے کی

قربانی کرنا۔ ہر رات میں ایک سلاخی سرد
لگانا۔ السَّدْمُ فِي الْعَرَبِي: خون کا رگ میں

زیادہ ہونا اور جوش مارنا۔ اَقْطَابِيصٌ وَجْهٌ
السَّخْلَامُ: لڑکے کے چہرہ پر پھنسیاں نکلنا

.....السَّمَاءُ: لگا تار برسا۔ ف: ہسر
ہونا۔ ایک رسی میں بندھے ہوئے دو اونٹ

دینا عِنَ الطَّرِيفِي: راستے سے ہٹ جانا۔ پھر
جانا۔

عَلَى غَرِيْبِهِ: قرض دار پر چگی کرنا۔ اقْرَنْتَ
السَّرِيَا: بلند ہونا۔ السَّمْلُ: پھوڑے کا پکنا

اور پھونکنے کے قریب ہونا۔ لِلْأَمْرِ: تو انا
ہونا۔ عَنَهُ: عاجز ہونا۔

تَقَارَنَ الرَّجُلَانِ: ایک دوسرے کا ساتھی
ہونا۔

اقْرَنَ الشَّيْءُ بِغَيْرِهِ: متصل ہونا۔ ملنا۔
اِسْتَقْرَنَ السَّمْلُ: پھوڑے کا پکنا اور

پھونکنے کا وقت قریب ہونا۔ السَّدْمُ فِي
العَرَبِي: خون کا رگ میں زیادہ ہونا

.....السَّرَجَلُ لِلْأَمْرِ: تو انا ہونا۔ لِفُلَانٍ:
ہسر ہونا۔

السَّقْرُنُ: مہس۔ سیٹنگ۔ والسَّقْرُنُ فِي
الْإِنْسَانِ: انسان کے سر کا وہ حصہ جہاں پر

جانور کے سیٹنگ نکلتا ہے۔ قَرْنُ الشَّمْسِ:
آفتاب کی پہلی شعاع القَرْنُ مِنَ الْمَطَرِ:

بارش کا جھلا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ عَلَى قَرْنِي"
وہ میری عمر کا ہے۔ السَّقْرُنُ: سو سال ایک

زمانے کے لوگ۔ ایک گروہ کے بعد ایک
گروہ۔ زمانہ کا ایک وقت۔ ج قَسْرُونُ.

السَّقْرُنُ: چھوٹی پہاڑی۔ پہاڑ کی چوٹی۔
قلعہ۔ عورت کے گیسو۔ السَّقْرُنُ مِنَ الْجَوَادِ:

مٹھی کے سر کے دو بال۔ درخت کی چھال
کی نئی ہوئی رسی۔ مال یا اون کا ایک گچھا۔
ج قَسْرُونٌ وَقِرَانٌ. والسَّقْرُنُ مِنَ الْقَوْمِ:

سردار و من السیف: تلوار کی دھار۔ قَرْنُ الشَّيْطَانِ وَقَرْنَاءُ: شیطان کی رائے کے پابند و حید۔ الْقَرْنُ: گینڈا۔ ذُو الْقَرْنَيْنِ: بادشاہ اسکندر مکرونی کا لقب۔ منذر بن ماء السماء کا لقب۔

الْقَرْنُ: کفو۔ ہمسر۔ مقابل۔ شجاعت یا علم میں نظیر۔ جِ الْقَرَانِ۔ الْقَرْنُ: مصل۔ دوسرے سے ملا ہوا۔ رشتی جس میں دو اونٹ بندھے ہوئے ہوں۔ ترکش جِ الْقَرَانِ: تلوار۔ تیر۔ جِ الْقَرَانِ۔ الْقَرْنُ: قیدی کے باندھنے کی رشتی بل کے بیوں کی گردن میں باندھنے کی جھال کی رشتی۔ رشتی جس کو باندھ کر اونٹ کو چھینیں۔ جِ الْقَرْنُ: حج کی ایک قسم جس میں عمرہ اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھتے ہیں۔ جِ الْقَرَانَاتِ۔

الْقَرْنَةُ: ہر چیز کا اٹھا ہوا کنارہ۔ تلوار یا نیزہ کی دھار۔ جِ الْقَرْنُ۔

الْقَارِنُ: فار۔ رَجُلٌ قَارِنٌ: تیر و تلوار سے مسلح۔ الْقَارِنُ: حج قرآن کرنے والا۔

الْقَرْنَيْنِ: دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا۔ ساتھی۔ مصاحب۔ شوہر۔ نفس۔ جِ الْقَرْنَاءِ الْقَرْنَيْنِ الْعَيْنِ: سرگیس آنکھ۔

الْقَرْنَانِي: نزدیک۔ تانت۔ جو اونٹ کی کھال کی ٹٹی گئی ہو۔ کہا جاتا ہے "جساء وُ اُقْرَانِي" ملے ہوئے آئے۔

الْقَرْنِيَّةُ: قرین کا مؤنث بیوی۔ نفس۔ الْقَرْنِيَّةُ الْكَلَامِ: جو کلام کے مراد پر دلالت کرے جِ الْقَرَانِ۔ ذُو الْقَرَانِ: آنے سے سامنے کے مکانات۔

الْقَرَانُ: شیشی۔

الْقَرُونُ: ایک مرتبہ میں دو دو لقمے کھانے والا وہ جانور جس کی پچھلی ٹانگیں اگلی ٹانگوں کی جگہ میں دوڑنے میں پڑیں۔ وہ اونٹنی جس کے بیٹھنے میں دونوں گھٹنے مل جائیں (..... وَالْقَرُونَةُ) نفس۔

الْقَارِنُ: سینگوں والا۔ ملی ہوئی بھنوں

والا۔ مؤنث قرناء۔ حِيَّةُ الْقَرْنَاءِ: سانپ جس کے سر پر گوشت کے دو ٹکڑے ابھرے ہوئے ہوں۔

الْقَرَانُ: اِقْتِرَانٌ أَوْ اجْتِمَاعُ الْقَمَرِ بِالشَّمْسِ: سورج اور چاند اپنی اپنی جگہ پر ہوں اور زمین ان کے درمیان نہ ہو اور سورج کو گرہن تب ہوتا ہے جس وقت وہ چاند کے ساتھ مل جائے۔

الْقَرَانِيَا: ایک درخت کا نام جس کے پھول خیم کی طرح ہوتے ہیں۔ اور اس کے پھل کھائے جاتے ہیں۔ الْقَرْنِيَاءُ: لوبیا۔

الْمُقَرَّنُ: جو ابل کا۔ الْمُقَرَّنُ: بلند کنارے والا جس کے لئے سینگ کے مشابہ بنایا جائے۔

الْمُقَرَّنَةُ: مُقَرَّنٌ كَامُونٌ۔ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں جو پاس پاس ہوں۔

الْقَرْنَانُ: مرد یوٹ۔ الْقَرْنَاءُ: سورۃ جو ہر رکعت میں پڑھی جائے۔

الْقَرْنِيَّانُ: گھوڑوں کا گھہ۔ تالا۔ فوج کا بڑا حصہ۔

الْقَرْنَبِيُّ: بی بی ٹانگوں کا ایک کیزا جو گبر یا کے مشابہ ہوتا ہے اور مثل ہے "الْقَرْنَبِيُّ فِي عَيْنِ أَمِيهَا حَسَنَةٌ" قرنی اپنی ماں کی نگاہ میں اچھا معلوم ہوتا ہے۔

الْقَرْنَبُ: جنگلی چوہا۔ چوہا۔ چوہے کا بچہ۔ الْقَرْنَبُ: کمر۔

الْقَرْنَسُ وَالْقَرْنَسُ الْبَاذِي: باز کی آنکھوں کو سینا۔ الْقَرْنَسُ الْبَيْكُ: مرغ کی لڑائی سے بھاگ جانا۔

الْقَرْنَسُ وَالْقَرْنَسُ: پہاڑ کا آگے کو نکلا ہوا حصہ۔ چرے کا نکلا۔ الْقَرْنَسُ: موزے کی نوک۔ جِ الْقَرَانِيصِ۔

سَقَفَتِ الْمُقَرَّنَسُ: سیرگی کی طرز پر بنی ہوئی چھت۔

الْقَرْنَفَلُ وَالْقَرْنَفُولُ: لوگ۔ واحد قَرْنَفَلَةٌ

وَقَرْنَفُولَةٌ۔

الْمُقَرَّنَفَلُ: مِنَ الْأَطْعَمَةِ: لوگ ڈالا ہوا کھانا۔

قَرَّةٌ (س) قَرَّهَا وَتَقَرَّهَ جَلْدُهُ: کھال کا چھلنا یا بہت مار سے سیاہ ہونا۔ داد کی کثرت سے داغ داغ ہونا۔ صفت الْقَرَّةِ: مؤنث قَرَّهَاءُ جِ قَرَّةٌ۔

الْقَارِهَةُ: فَ..... مِنَ الْجَلْدِ: خشک کھال۔

الْقَرْهَبُ: بوڑھا تیل..... مِنَ الْمَغْرِبِ: بہت اون والی بکری۔ الْقَرْهَبُ: سردار قوم۔ بوڑھا۔

قَرَانِيَقُوا قَرُوا إِلَيْهِ: قصد کرنا..... بِالرُّوحِ فَلَانَا: نیزہ مارنا۔ صفت نَدْرَقَارِيحٌ قَرَاةٌ وَقَارِيحُونَ: صفت مؤنث قَارِيحَةٌ جِ قَوَارِيحٌ وَقَارِيحَاتٌ قَرَاوًا وَاسْتَقَرُّوا وَالْقَرِيحَةُ الْأَمْرُ: تتبع کرنا۔ تلاش کرنا۔ اسْتَقَرُّوا الذَّمْلُ: پھوڑے کا پیپ والا ہونا۔

أَقْرَى إِقْرَاءً: پیٹھ میں درد ہونا۔ الْقَرَاءُ: پیٹھ۔ جِ أَقْرَاءُ وَقَرَوَانُ: کدو۔

الْقَرَوُ: مصل۔ نہر کی مانند لبا حوض۔ زمین جس کو طے نہ کیا جاسکے۔ کولہو کی نالی۔ چھوٹا برتن۔ سمجھو کر درخت کا پھل حصہ جس کو کھود کر اس میں نمید بنایا جائے۔ لکڑی کا پیالہ۔

كُهْوَلَا بَانَسُ: ایک ہی طریقے کی چیزیں۔ کہا جاتا ہے "تَرَكْنَهُمْ قَرَوًا وَاحِدًا" میں نے ان کو ایک طریقہ پر چھوڑا۔

و"قَصِيدَتَانِ عَلَى قَرَوٍ وَاحِدٍ" دو قصیدے ایک رومی پر "وَتَرَكْتُ الْأَرْضَ قَرَوًا" تمام زمین پر بارش چھا گئی أَصْبَحْتُ الْأَرْضَ قَرَوًا وَاحِدًا: زمین کی سطح پانی سے ڈھک گئی۔ جِ قَرَوٌ وَأَقْرَاءُ وَأَقْرَوُ قَرِيًّا۔

الْقَرَوُ وَالْقَرَوَةُ: خَصِيَّتَيْنِ: کی کھال کی کھنچاؤ قَرَوَةُ الزَّرْسِ: سر کا کنارہ۔

الْقَرَوُ الْقَرَوَةُ وَالْقَرَوَةُ وَالْقَرَوَةُ: کتے کا ٹھیکرا۔

الْقَرَوَاءُ: عادت۔ دُور۔ نَاقَةُ قَرَوَاءٍ: لمبے کوہان والی اونٹنی (جمل اترتی نہیں کہا جاتا)

<p>القَرْوَان: پیٹھ یا پیٹھ کا درمیانی حصہ ج قِرْوَانَات.</p> <p>القَرْوَاتِي: جِصْتَيْن: کی کھال کی کھنچاؤ والا۔</p> <p>القَرْوِي: عادت۔ کہا جاتا ہے "زَجْعَ الِى قَرْوَاه" اپنی عادت پر لوٹ گیا۔</p> <p>القَرْبِي: ایک ہی طریقہ کی چیزیں۔ قَرْبِي العَقِيْدَةُ: تصیدہ کا ردی۔</p> <p>الْمَقْرِي: تیلہ کی چوٹی۔ ج مَقَار..... المُقْرَوِي: لمبی پیٹھ والا۔</p> <p>شِئَاةٌ مَقْرُوَةٌ: بکری کہ اس کے سر میں ایک لکڑی لگا دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے دودھ کو نہ پی سکے۔</p> <p>قَرِي يَقْرِي قَرِي وَقَرَاءُ الضَّيْف: مہمان کی میزبانی کرنا..... قَرِي وَقَرِيَاءُ الْمَاءِ فِي السَّحُوْضِ: پانی حوض میں جمع کرنا..... السَّيْعِرُ وَكُلُّ مَا اجْتَرَّ: جگال کو جڑے میں جمع کرنا..... الْجُرْحُ: زخم کا بہنا..... الْمِدَّةُ فِي الْجُرْحِ: زخم میں پیپ کا جمع ہونا۔ کہا جاتا ہے "قَرِيْتُ فِي شِدْقِي جَوْزَةٌ" میں نے اپنے جڑے میں اخروٹ کو چھپایا۔</p> <p>قَرِي يَقْرِي قَرِي وَقَرِيَاءُ وَقَرِيَاءُ السَّقْرِي الْبِلَادِ: تلاش کرنا۔ چکر لگانا۔</p> <p>اَقْرِي اِقْرَاءُ: گاؤں میں رہنا..... کسی شے کو لازم رہنا اور اصرار کرنا..... (وَسَقْرِي) مہمانی طلب کرنا۔</p> <p>اِقْسَرِي: مہمانی طلب کرنا..... الضَّيْفُ: مہمان کی میزبانی کرنا..... الْبِلَادِ: تلاش کرنا اور چکر لگانا اِقْسَرِي فَلَانَا بِقَوْلِهِ: تلاش کرنا۔</p> <p>القَرِي: مہمانی کا کھانا۔ پانی جو حوض میں جمع کیا جائے۔</p> <p>القَرِيَّةُ وَالْقَرِيَّةُ: جائیداد۔ گاؤں۔ لوگوں کی جماعت۔ ج قَرِي وَقَرِي اور نِسْب کے لئے قَرَوِي وَقَرِي. قَرِيَّةُ النَّمْلِ: چیونٹیوں کے رہنے کی جگہ۔ قَرِيَّةُ الْاَنْصَارِ: مدینہ طیبہ والقرینان: مکہ معظمہ اور طائف۔</p> <p>القَرْوَان: بھما ہوا دودھ۔ تیلہ سے باغ کی طرف بہنے والی نالی۔ نالی۔ ج اَقْرِيَّةُ واقْرَاءُ وَقَرِيَان.</p> <p>القَرِيَّةُ: لاٹھی۔ چیونٹیوں کے رہنے کی جگہ۔ بادبان کے اوپر کے حصہ کی لکڑی جو عرض میں لگائی جاتی ہے ج قَرِيَانَا.</p> <p>القَرَادِي: فا۔ دیہاتی۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ لِي كُلَّ قَارٍ وَبَادٍ" میرے پاس ہر ایک دیہاتی اور شہری آیا۔</p> <p>القَرَادِيَّةُ: قاری کا موٹ۔ مکان لوگوں سے بھرا ہوا۔ تلوار کی دھار۔ نیزہ کا نچلا حصہ یا اوپر کا حصہ۔ ج قَرَادِي کہا جاتا ہے "هُمُ قَرَادِي السُّبُ" وہ اللہ کے شہداء ہیں.....</p> <p>والقَرَادِيَّةُ: ایک پرندہ چھوٹی ٹانگوں اور لمبی چوچ کا جس کی پیٹھ سبز ہوتی ہے۔ ج قَرَادِي واقْرَادِي.</p> <p>السَّقْرَاةُ: لوگوں سے بھری ہوئی جگہ ج قَارِيَات.</p> <p>السَّقْرِي وَالسَّقْرَاةُ: ہر وہ جس میں بارش کا پانی جمع ہو۔</p> <p>السَّقْرِي وَالسَّقْرَاةُ: میزبان۔ بہت مہمانی کرنے والا۔ مَوْنُ السَّقْرَاةُ واقْرَاءُ. السَّقْرِي وَالسَّقْرَاةُ: بڑا پیالہ جس میں مہمان کے سامنے کھانا پیش کیا جائے۔ ج مَقَار. السَّقْرَاةُ: ہانڈیاں۔</p> <p>قَرَّ (ن ض) قَرًّا: کو دینے کے لئے سینٹا۔ كودنا۔ قَرَّرْتُهُ نَفْسِي وَقَرَّرْتُ عَنْهُ نَفْسِي: نفرت کرنا۔ انکار کرنا..... قَرًّا وَقَرَّرْتُ مِنْ الذَّنْسِ وَكُلُّ مَا يُسْتَقْدَرُ وَيُسْتَخْبَثُ: مکروہ جاننا۔ پرہیز کرنا چھٹا۔</p> <p>السَّقْرُ: مہم۔ رشیم جس سے نکالا جائے۔ ذُوذُ الْقَرِّ: رشیم کا کیزا۔ ج قَرُّوْز (دخیل) القَرُّو الْقَرُّو الْقَرُّو الْقَرُّو الْقَرُّو الْقَرُّو: گندگی سے بچنے والا۔ کہا جاتا ہے "مَنْ فِي طَعَامِهِ قَرٌّ وَلَا قَرٌّ وَلَا قَرَّةٌ" اس کے کھانے میں ایسی کوئی چیز نہیں جس سے پرہیز کیا جائے اور اسے مکروہ سمجھا جائے۔</p>	<p>القَرْوَان: بھما ہوا دودھ۔ تیلہ سے باغ کی طرف بہنے والی نالی۔ نالی۔ ج اَقْرِيَّةُ واقْرَاءُ وَقَرِيَان.</p> <p>القَرِيَّةُ: لاٹھی۔ چیونٹیوں کے رہنے کی جگہ۔ بادبان کے اوپر کے حصہ کی لکڑی جو عرض میں لگائی جاتی ہے ج قَرِيَانَا.</p> <p>القَرَادِي: فا۔ دیہاتی۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ لِي كُلَّ قَارٍ وَبَادٍ" میرے پاس ہر ایک دیہاتی اور شہری آیا۔</p> <p>القَرَادِيَّةُ: قاری کا موٹ۔ مکان لوگوں سے بھرا ہوا۔ تلوار کی دھار۔ نیزہ کا نچلا حصہ یا اوپر کا حصہ۔ ج قَرَادِي کہا جاتا ہے "هُمُ قَرَادِي السُّبُ" وہ اللہ کے شہداء ہیں.....</p> <p>والقَرَادِيَّةُ: ایک پرندہ چھوٹی ٹانگوں اور لمبی چوچ کا جس کی پیٹھ سبز ہوتی ہے۔ ج قَرَادِي واقْرَادِي.</p> <p>السَّقْرَاةُ: لوگوں سے بھری ہوئی جگہ ج قَارِيَات.</p> <p>السَّقْرِي وَالسَّقْرَاةُ: ہر وہ جس میں بارش کا پانی جمع ہو۔</p> <p>السَّقْرِي وَالسَّقْرَاةُ: میزبان۔ بہت مہمانی کرنے والا۔ مَوْنُ السَّقْرَاةُ واقْرَاءُ. السَّقْرِي وَالسَّقْرَاةُ: بڑا پیالہ جس میں مہمان کے سامنے کھانا پیش کیا جائے۔ ج مَقَار. السَّقْرَاةُ: ہانڈیاں۔</p> <p>قَرَّ (ن ض) قَرًّا: کو دینے کے لئے سینٹا۔ كودنا۔ قَرَّرْتُهُ نَفْسِي وَقَرَّرْتُ عَنْهُ نَفْسِي: نفرت کرنا۔ انکار کرنا..... قَرًّا وَقَرَّرْتُ مِنْ الذَّنْسِ وَكُلُّ مَا يُسْتَقْدَرُ وَيُسْتَخْبَثُ: مکروہ جاننا۔ پرہیز کرنا چھٹا۔</p> <p>السَّقْرُ: مہم۔ رشیم جس سے نکالا جائے۔ ذُوذُ الْقَرِّ: رشیم کا کیزا۔ ج قَرُّوْز (دخیل) القَرُّو الْقَرُّو الْقَرُّو الْقَرُّو الْقَرُّو الْقَرُّو: گندگی سے بچنے والا۔ کہا جاتا ہے "مَنْ فِي طَعَامِهِ قَرٌّ وَلَا قَرٌّ وَلَا قَرَّةٌ" اس کے کھانے میں ایسی کوئی چیز نہیں جس سے پرہیز کیا جائے اور اسے مکروہ سمجھا جائے۔</p>	<p>القَرْوَان: بھما ہوا دودھ۔ تیلہ سے باغ کی طرف بہنے والی نالی۔ نالی۔ ج اَقْرِيَّةُ واقْرَاءُ وَقَرِيَان.</p> <p>القَرِيَّةُ: لاٹھی۔ چیونٹیوں کے رہنے کی جگہ۔ بادبان کے اوپر کے حصہ کی لکڑی جو عرض میں لگائی جاتی ہے ج قَرِيَانَا.</p> <p>القَرَادِي: فا۔ دیہاتی۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ لِي كُلَّ قَارٍ وَبَادٍ" میرے پاس ہر ایک دیہاتی اور شہری آیا۔</p> <p>القَرَادِيَّةُ: قاری کا موٹ۔ مکان لوگوں سے بھرا ہوا۔ تلوار کی دھار۔ نیزہ کا نچلا حصہ یا اوپر کا حصہ۔ ج قَرَادِي کہا جاتا ہے "هُمُ قَرَادِي السُّبُ" وہ اللہ کے شہداء ہیں.....</p> <p>والقَرَادِيَّةُ: ایک پرندہ چھوٹی ٹانگوں اور لمبی چوچ کا جس کی پیٹھ سبز ہوتی ہے۔ ج قَرَادِي واقْرَادِي.</p> <p>السَّقْرَاةُ: لوگوں سے بھری ہوئی جگہ ج قَارِيَات.</p> <p>السَّقْرِي وَالسَّقْرَاةُ: ہر وہ جس میں بارش کا پانی جمع ہو۔</p> <p>السَّقْرِي وَالسَّقْرَاةُ: میزبان۔ بہت مہمانی کرنے والا۔ مَوْنُ السَّقْرَاةُ واقْرَاءُ. السَّقْرِي وَالسَّقْرَاةُ: بڑا پیالہ جس میں مہمان کے سامنے کھانا پیش کیا جائے۔ ج مَقَار. السَّقْرَاةُ: ہانڈیاں۔</p> <p>قَرَّ (ن ض) قَرًّا: کو دینے کے لئے سینٹا۔ كودنا۔ قَرَّرْتُهُ نَفْسِي وَقَرَّرْتُ عَنْهُ نَفْسِي: نفرت کرنا۔ انکار کرنا..... قَرًّا وَقَرَّرْتُ مِنْ الذَّنْسِ وَكُلُّ مَا يُسْتَقْدَرُ وَيُسْتَخْبَثُ: مکروہ جاننا۔ پرہیز کرنا چھٹا۔</p> <p>السَّقْرُ: مہم۔ رشیم جس سے نکالا جائے۔ ذُوذُ الْقَرِّ: رشیم کا کیزا۔ ج قَرُّوْز (دخیل) القَرُّو الْقَرُّو الْقَرُّو الْقَرُّو الْقَرُّو الْقَرُّو: گندگی سے بچنے والا۔ کہا جاتا ہے "مَنْ فِي طَعَامِهِ قَرٌّ وَلَا قَرٌّ وَلَا قَرَّةٌ" اس کے کھانے میں ایسی کوئی چیز نہیں جس سے پرہیز کیا جائے اور اسے مکروہ سمجھا جائے۔</p>
--	---	---

القذحلة: كمان۔

قذع (ف) قذوعا: دیر کرنا..... القذعی: ہرن کا دوڑنا۔ بھاگنے میں جست ہونا۔

قذع الرسول الیہ: قاصد بھیجنا..... القذس: گھوڑے کو دوڑانے کے لئے آمادہ کرنا.....

الشارب: مونچھ کا ثنا..... القذس: گھوڑے کا تیز دوڑنا..... رائسہ: سر موٹنا اور کچھ ادھر ادھر چھوڑ دینا۔

قذعه و قذعه للاحمر: فارغ کر دینا اور دوسرے کام میں مشغول نہ کرنا۔ والقذع لہ فی القول: سخت سست کہنا۔

تقذع السراس: سر متفرق جگہ سے موٹا جانا۔

القذس: گھوڑے کا دوڑنے کے لئے آمادہ ہونا..... القذوم: قوم کا متفرق ہونا..... السحاب: بادل کھل جانا۔

القذع: بادل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے۔ چھوٹے اونٹ۔ بالوں کو کچھ موٹنا کچھ چھوڑ دینا۔ وازی کا کوڑا کرکٹ۔ قذع السہم: تیر کے پد کا پتلا حصہ۔ ہر چیز جس کے متفرق ٹکڑے ہوں واحد قذعة۔

القذعة: حرامی۔ ولد الزنا۔ بادل کا ٹکڑا۔ سر میں متفرق بال کٹے ہوئے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے ما عندہ قذعة: یعنی اس کے پاس کچھ کپڑا نہیں۔

القذعة والقذیعة: بالوں کا گچھا جو بچے کے سر پر چھوڑ دیا جائے۔ سر کے درمیان میں تھوڑے سے بال۔

قذس قذیع: بھگت توں تیز۔

القذاع: جھپٹڑے کا ٹکڑا۔ کہا جاتا ہے "ما فی السماء قذاع" یعنی آسمان میں تھوڑا سا بھی بادل نہیں۔

الاقذع: بمن الكباش: مینڈھا جس کے بال موسم بہار میں کہیں سے گر گئے ہوں کہیں سے باقی رہ گئے ہوں۔

المقذع: تیز ہلکا پھلکا۔ وہ شخص جس کے سر پر کچھ تھوڑے سے بال ہوں۔ بشارت کیلئے

مخصوص کیا ہوا..... ومن الخیل: پیشانی پر کم بال والا گھوڑا۔ زجل مقذع: وہ شخص جس کا مال برباد ہو جائے اور صرف چھوٹے اونٹ رہ جائیں۔

المقذعل: تیز رو۔

قزل (ض) قزلا وقزلانا: کودنا۔ لنگڑے کی چال چلنا۔

قزل (س) قزلا: لنگڑا ہونا۔ صفت اقزل (قزل: بدترین لنگڑا ہٹ ہے)

الاقزل: بھیڑیا۔ ہاریک پنڈلی والا۔ ایک قسم کا سانپ۔

قزما (ض) قزما: عیب لگانا۔

قزم (س) قزما: کمینہ ہونا۔ لیم ہونا۔ تقزم: کاموں میں زبردستی داخل ہونا۔

القزم: مص۔ کمینگی۔ لکھی۔ کوتاہی۔ رومی مال۔ حقیر لوگ (واحد جمع مذکر مؤنث) کہا جاتا ہے "ہؤلاء قوم قزم ما فیہم حکم"

یہ لوگ کمینہ ہیں ان میں کرم نہیں اور بھی تشبیہ اور جمع مؤنث استعمال کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے "زجل قزم ورجلان قزمان"

وامرأة قزما ورجل قزم واقزام وقزماہ وبنساء قزماہ"

القزم والقزم والقزم والقزم: لیم اور دنی مرد۔ مؤنث قزما وقزما وقزما وقزما۔

القزم والقزم: چھوٹے جسم والا بے خیر۔ ج قزم واقزام اور کہا جاتا ہے زجل قزما وامرأة قزما: چھوٹے جسم کا مرد۔ چھوٹے جسم کی عورت۔ مذکر و مؤنث دونوں کے لئے۔

القزام: لیم لوگ۔

القزام: جس پر کوئی غالب نہ آئے۔ جلدی کی موت۔

سودد اقزم: سرداری جو خاندانی نہ ہو۔

القزامل: کوتاہ قامت بد صورت۔

قزما یقزوا قزوا: الارض بغضاً: زمین کو لاکھی سے کریدنا..... الرجل: عیب سے دور رہنا۔ قزہ (ایک کھیل ہے) کھیلنا۔

القذی: بے عیبی کے بعد عیب دار ہونا۔

القذیة: سانپ۔ عربوں کا ایک کھیل ج قذات۔

قذی الرجل: پچھاڑنا اور قتل کرنا (یہی): ہے)

القذی: لقب کہا جاتا ہے "بنس القذی ہذا" یہ لقب ہے۔

قس (ن) قسا وقسا وقسا: چغل خوری کرنا..... القسوم: بُرے کلام سے تکلیف پہنچانا..... قسا السیر: دوڑنا..... قسا

علی العظیم: ہڈی پر کا گوشت کھانا اور گودا نکالنا (وقس الاہل) اونٹوں کو اچھی طرح سے چرانا۔

قس وقس السی: طلب کرنا اور ڈھونڈنا۔ کہا جاتا ہے "تقسس أضواتہم باللیل" اس نے رات میں ان کی آواز پر کان لگایا۔

قس قسونة قیسنة: پادری ہونا۔

اقسس الاسد: شیر کا خوراک تلاش کرنا۔

النافة: اونٹنی کا تنہا جانا۔

القس: پادری کا بن ج قسوس: اونٹوں کا مالک جو ان سے جدا نہ ہو۔ پالا۔

القس: عقلاء۔ ماہر۔

القساس: سیلاب کا کوڑا کرکٹ۔ آرمینیا میں ایک پہاڑ ہے جس میں لوہے کی کان ہے اور اس سے ہے السیوف والقصابیة۔

القساس: چغل خور۔

القسیس: پادری ج قیسسوزن وقسان واقیة وقسا وستہ۔

القسی: من الذراہم: رومی درابم۔

القسة: چھوٹا گاؤں۔

القسوسة والقیسنة: قیس کا درجہ۔

قشب (ض) قشبا النساء: پانی جاری ہونا۔

القشس: آفتاب غروب ہونے لگانا۔

قشب (ک) قسونا وقسونة السی: قسب

ق س ط	ق س ط	ق س م
سخت ہونا۔ القُسْبُ: مصل۔ بہت سخت۔ خشک کھجور جو منہ میں کھلے کھلے ہو جائے۔ واحد قُسْبَةٌ۔ القُسْبَانَةُ: رومی قسم کی کھجور۔ القُسُوبُ: چمڑے کا موزہ۔ القُسُوبُ: چمڑے کے موزے (اس کا واحد نہیں) القُسْبُ والقُسْبِيَّةُ: ہر ایک لمبی اور مضبوط چمڑے۔ قُسْبُ الْمَاءِ: پانی کا بہاؤ آواز کے ساتھ۔ قُسْرٌ قُسْرَةً: جماع کرنا۔ قَسَحَ (ف) قَسَاخَةً وَقُسُوخَةً: سخت ہونا الخبیل۔ رتی بنا۔ قَاسَحَهُ: سختی کے ساتھ معاملہ کرنا۔ القَاسِحُ والقَاسِحَةُ والقَسَاخُ والقَسُوخُ: سخت اور موٹا۔ کہا جاتا ہے ”قُسُوبٌ قَاسِحٌ“ موٹا کپڑا ”رُزْمٌ قَاسِحٌ“ ٹھوس مضبوط نیزہ۔ قَسْرَةٌ (ض) قَسْرًا وَقَسْرَةً عَلَيَّ الْأَخِي: مجبور کرنا۔ قَسُورُ الرَّجُلِ: عمر رسیدہ ہونا..... النَّبْتُ: بکثرت ہونا۔ القَسُورُ والقَسُورَةُ: غالب۔ شیر۔ بہادر۔ توی لڑکا ج قَسَاوِرَةٌ۔ القَسُورَةُ: رات کا بڑا حصہ۔ ایک میدان نباتات ج قَسُورٌ۔ القَسُورَةُ: تیر چلانے والا۔ شکاریوں کی جماعت۔ قَسَطَ (ض) قَسَطًا وَقَسُوطًا: ظلم کرنا۔ حق سے ہٹ جانا۔ صفت قَاسِطٌ ج قَسَاطٌ وقَاسِطُونَ۔ قَسَطَ (ن ض) قَسَطًا وَأَقْسَطَ الْوَالِي: منصف ہونا۔ کہا جاتا ہے ”أَقْسَطَ فُلَانٌ حُكْمَهُ وَأَقْسَطَ بَيْنَهُمُ وَالْيَهُمُ“ فیصلہ میں انصاف کیا۔ ان کے درمیان انصاف کیا۔ أَقْسَطَتِ الرَّيْحُ الْعَيْدَانَ: ہوا کا کٹڑیوں کو خشک کر دینا۔	قَسَبَتَ (س) قَسَطًا الْعُنُقُ: گردن خشک ہونا..... السَّذَابَةُ: سیدھی ناگوں والا ہونا (..... قَسُوطًا) الْعِظَامُ: لاغری کی وجہ سے بڈیوں کا خشک ہونا۔ قَسَطُ الشَّيْءِ: جدا جدا کرنا..... الْأَعْرَاسُ: پودوں کے درمیان برابر فاصلہ کرنا..... الذَّيْنُ: قرض کی قسط مقرر کر دینا۔ کہا جاتا ہے قَسَطَ الْخِرَاجَ عَلَيْهِمُ وَالْمَالَ بَيْنَهُمْ: یعنی خراج کا ان کے اوپر قسط مقرر کر دیا اور مال ان کے درمیان تقسیم کر دیا۔ قَسَطَ عَلَى عِيَالِهِ: اہل و عیال پر تنگی کرنا۔ أَقْسَطُوا الْمَالَ بَيْنَهُمْ: تقسیم کرنا۔ تَقَسَّطَ الْقَوْمُ الشَّيْءَ بَيْنَهُمْ: برابر برابر تقسیم کرنا۔ القَسِطُ: انصاف۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ قَسِطٌ“ وہ عادل ہے ”هُمْ قَسِطٌ“ وہ لوگ عادل ہیں۔ حصہ۔ مقدار۔ میزان۔ ترازو۔ بیان نصف صاع کا۔ روزی۔ قسط مقرر کئے ہوئے قرض کا ایک حصہ ج أَقْسَاطٌ۔ القَسِطُ: عود ہندی۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ قَسِطٌ الرَّجُلِ وَقَسِطُهَا“ جبکہ پاؤں سخت اور سیدھے ہوں کہ چلنے میں مڑتے نہ ہوں۔ القَسِطُ: مصل۔ اعضاء کی سختی یا خشکی۔ الْأَقْسَاطُ: خشک شدہ گردن والا۔ مَوْنَتُ قَسَطَاءَ ج قَسَطٌ. رَجُلٌ قَسَطَاءٌ: بیڑھا بیر۔ عُنُقٌ قَسَطَاءٌ: خشک گردن۔ رُجْبَةٌ قَسَطَاءٌ: خشک شدہ زانو جو مڑ نہ سکے۔ ج قَسَاطٌ۔ القَسَطَانُ: غبار۔ القَسَطَانُ والقَسَطَانَةُ والقَسَطَانِيَّةُ والقَسَطَانِيَّةُ: قوس قزح۔ دھنک۔ القَسِطُ: اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے اور معنی اس کے عادل کے ہیں۔ قَسَطَرُ الذَّرَاهِمِ: دراہم کو پرکھنا۔ القَسَطَرُ والقَسَطَارُ: مردانا دور میں۔ القَسَطِرِيُّ: دراہم کو پرکھنے والا۔ مردانا۔	دور میں۔ بڑے ذیل ذول کا۔ ج قَسَاطِرَةٌ۔ القَسَطَاسُ والقَسَطَاسُ: ترازو (جدید) القَسَطِيلُ والقَسَطَالُ والقَسَطُولُ والقَسَطَلَانُ: میدان جنگ کا گردوغبار۔ ج قَسَاطِيلٌ. أُمُّ قَسَطِلٍ: مصیبت۔ موت۔ نَهْرٌ قَسَطَالٌ: بنے میں شور کرنے والا دریا۔ القَسَطَلَةُ: اونٹ کی بڑبڑاہٹ۔ قَسَطَلَةُ الْمَاءِ: پانی بننے کی آواز قَسَاطِيلُ الْخَبِيلِ: گھوڑوں کی آوازیں۔ القَسَطَلَانِيَّةُ: شوق کی سرخی۔ غبار کی کثرت (..... والقَسَطَلَانِيَّةُ) قوس قزح۔ دھنک۔ قَسَقَسَ قَسَقَسَةً: چرواہا ہونا۔ قَسَقَسَ الشَّيْءُ: بلانا۔ قَسَقَسَ بِالْكَلْبِ: کتے کو قوس قوس کہہ کے بلانا۔ قَسَمَ (ض) قَسَمًا الشَّيْءُ: بانٹنا۔ تجزیہ کرنا۔ الذَّهْرُ الْقَوْمِ: متفرق کرنا..... فَلَانٌ أَمْرَةٌ: اندازہ کرنا..... بَيْنَ الْبَسَاءِ: بیویوں کی باری کی حفاظت کرنا۔ قَسَمَ (ك) قَسَامَةً. الْغُلَامُ: لڑکے کا خوبصورت ہونا۔ قَسِيمٌ: نا۔ خوبصورت۔ قَسَمَ الشَّيْءُ: جزء جزء کرنا۔ تفریق کرنا۔ کہا جاتا ہے ”قَسَمَ الذَّهْرُ الْقَوْمَ“ زمانے نے قوم کو متفرق کر دیا..... الشَّيْءُ: حسین بنانا۔ قَسَمَهُ الْمَالُ: اپنے اپنے حصہ کو لینا۔ قَسَمَهُ عَلَى كَذَا: قسم کھانا۔ أَقْسَمَ بِاللَّهِ: حلف اٹھانا۔ قسم کھانا۔ تَقَسَّمَ الشَّيْءُ: جدا جدا کرنا..... الشَّيْءُ: جدا جدا ہونا۔ کہا جاتا ہے ”تَقَسَّمَتِ الْهُمُومُ“ یعنی غموں نے اس کو پریشان خاطر کر دیا۔ وَتَقَسَّمَ فَلَانٌ: فکر کرنا۔ سوچنا۔ تَقَسَّمَ الْقَوْمُ: آپس میں قسم کھانا..... وَأَقْسَمَ الْقَوْمُ الصَّمَالَ: آپس میں تقسیم کرنا۔ أَقْسَمَ: تقسیم ہونا۔

کی وجہ سے سِرْنَا سِرًّا قَسِيًّا ہم تیز چال چلے۔	القَسَائِي: پہلی تہ پر کپڑے کو لپیٹنے والا۔ دو چیزوں کے درمیان کی چیز۔	اِسْتَقْسَمَ: قسم کرنے کو کہنا۔ فکر کرنا۔ سوچنا۔ اِسْتَقْسَمَهُ بِاللَّهِ: قسم کھانے کو کہنا۔
أَرْضٌ قَسَائِيَّةٌ: بجز زمین جس میں کچھ نہ آگے۔	القَسَامُ: قاسم: کا مالکہ۔	القَسَمُ: مص۔ عطیہ۔ رائے۔ شک۔
أَيْلَةُ قَسَائِيَّةٌ: بہت تاریک رات۔ کہا جاتا ہے "هُوَ أَقْسَى مِنَ الصُّخْرِ" وہ پتھر سے زیادہ سخت ہے۔	القَسِيمُ: حصہ۔ تقسیم شدہ شے کا ایک حصہ۔ جِ اَقْسَمَاءُ: تقسیم کرنے والا جِ اَقْسَمَاءُ وَقَسَمَاءُ: خوبصورت جِ قَسَمُ۔	عادت۔ بارش۔ پانی۔ ہانڈی۔ گمان پیدا ہونا اور پھر قوت یا کریقین ہونا۔ حَصَاةُ القَسَمِ: پانی تقسیم کرنے کی کنکری اور یہ اس طرح پر کہ سفر کی حالت میں جب پانی کی کمی ہوتی تھی تو ایک برتن میں کنکری ڈالتے تھے اور پھر اس پر پانی ڈالتے تھے اتنا کہ کنکری چھپ جائے پھر ایک آدمی کو پینے کے لئے دیتے تھے اور پھر اسی طرح کرتے تھے اور یہ اس لئے تاکہ سب کو پانی برابر پہنچ جائے اور کسی کو شکایت نہ رہے۔
القَسَمَاءُ: جو سخت بنا دے۔ کہا جاتا ہے "الذَّنْبُ مُقَسَّاةٌ لِّلْقَلْبِ" گناہ دل کو سخت کرنے کا سبب ہے۔	القَسِيمَةُ: قسم کا موٹ۔ عطر فروش کا ڈب۔ بازار۔ خوبصورت چہرہ جِ قَسَائِمِ۔	القَسَمُ: تقسیم شدہ چیز کا ایک حصہ۔ خیر کا حصہ۔ جِ اَقْسَامِ جِ اَقْسَائِمِ۔
قَشٌّ (ن) قَشُّوْنَا: لاغری کے بعد تومند ہونا۔ فَلَانٌ: لاغری کی چال چلنا۔ مِنْ مَرَضِهِ: مرض سے صحت یاب ہونا۔	القَسِيمَةُ: تقسیم کرنے والا ہوتا ہے۔	القَسَمُ: اللہ تعالیٰ یا غیر اللہ کی قسم جِ اَقْسَامِ۔
قَشٌّ (ن ض) قَشًّا النِّبَاتُ: نباتات کا خشک ہونا۔ الشَّيْءُ: جمع کرنا۔ ہاتھ سے رگڑنا۔ فَلَانٌ: صدقہ کے ٹکڑے کھانا۔	القَسِيمَةُ: تقسیم کرنے کی جگہ جِ مَقَائِمِ۔	القَسَمَةُ: اقسام کا اسم۔ حصہ۔ جِ قَسَمِ۔
قَشٌّ (ن ض) قَشًّا وَقَشُّشٌ: ادھر ادھر سے کھانا۔ قَشُّشُهُ بِكَلَامِهِ: بدکلامی سے تکلیف پہنچانا۔	القَسِيمَةُ: تقسیم کرنے والا ہوتا ہے۔	القَسَمَةُ التَّوَالِفِيَّةُ: (علم حساب) چار نقاط جو ایک خط پر جمع ہوں اور اس کے برابر ہوں تو تقسیم موافقت ہے۔ وگرنہ تقسیم عدم موافقت ہے۔
قَشٌّ (ن ض) قَشًّا وَقَشُّشٌ: ادھر ادھر سے کھانا۔ قَشُّشُهُ بِكَلَامِهِ: بدکلامی سے تکلیف پہنچانا۔	القَسِيمَةُ: تقسیم کرنے والا ہوتا ہے۔	قِسْمَةٌ عَدَدٌ غَيْرُ صِفَرٍ عَلَى صِفَرٍ: (علم حساب) یہ تقسیم صحیح ہے۔ یعنی صفر کے علاوہ عدد کو صفر پر تقسیم کرنا۔ صفر کی تقسیم صفر پر اس کا حاصل صفر نہیں کوئی عدد بھی ہو سکتی ہے۔
قَشٌّ (ن ض) قَشًّا وَقَشُّشٌ: ادھر ادھر سے کھانا۔ قَشُّشُهُ بِكَلَامِهِ: بدکلامی سے تکلیف پہنچانا۔	القَسِيمَةُ: تقسیم کرنے والا ہوتا ہے۔	القَسَمَةُ والقِسْمَةُ: خوبصورتی۔ چہرہ (.....) والقِسْمَةُ: عطر فروش کا ڈب۔ جِ قَسِيمَاتِ وَقَسَمَاتِ۔
قَشٌّ (ن ض) قَشًّا وَقَشُّشٌ: ادھر ادھر سے کھانا۔ قَشُّشُهُ بِكَلَامِهِ: بدکلامی سے تکلیف پہنچانا۔	القَسِيمَةُ: تقسیم کرنے والا ہوتا ہے۔	القَسَامُ: خوبصورتی۔ گرمی کی شدت۔
قَشٌّ (ن ض) قَشًّا وَقَشُّشٌ: ادھر ادھر سے کھانا۔ قَشُّشُهُ بِكَلَامِهِ: بدکلامی سے تکلیف پہنچانا۔	القَسِيمَةُ: تقسیم کرنے والا ہوتا ہے۔	القَسَامَةُ: خوبصورتی۔ صلح۔ جماعت جو کسی چیز کے لئے قسم کھائے اور لے لے۔ قسم جو اولیاءِ مَقْتُولِ کو دی جائے۔ کہا جاتا ہے "حَكْمُ الْقَضِي بِالْقَسَامَةِ" قاضی نے قسامت کا فیصلہ کیا اور قسامت قسم کا اسم ہے جو مصدر کی جگہ پر استعمال ہوا ہے۔
قَشٌّ (ن ض) قَشًّا وَقَشُّشٌ: ادھر ادھر سے کھانا۔ قَشُّشُهُ بِكَلَامِهِ: بدکلامی سے تکلیف پہنچانا۔	القَسِيمَةُ: تقسیم کرنے والا ہوتا ہے۔	القَسَامَةُ: صدقہ کا مال۔ تقسیم کرنے والا جس کو اپنے لئے خاص کر لے۔

المِقْشَةُ: جھاڑو۔

قَشَبٌ (ض) قَشَبًا فَلَاتَنَا السَّمَّ: زہر

پلانا۔ قَشَبٌ عَلَيْهِ: بہتان لگانا..... الرَّجُلُ

: عار دلانا۔ عیب لگانا۔ بُرئِ بَاتِ كَمَا.....

السَّيْفُ: تلوار پر صیقل کرنا..... السُّدْحَانُ:

دھوئیں کا تھنوں کو بھر دینا۔ کہا جاتا ہے

"قَشَبِي وَبُخْه" اس کی بُو نے مجھ کو تکلیف

دی..... السَّمَالُ: عقل زائل کرنا۔

..... السُّيُ: فاسد کرنا بگاڑ دینا وَقَشَبٌ لَهُ

: زہر پلانا۔ قَشَبَهُ بَشَرًا: برائی سے یاد کرنا

قَشَبَ الرَّجُلُ: نیک نامی یا بدنامی اختیار

کرنا۔ قَشَبٌ وَقَشَبُ الطَّعَامِ بِالسَّمِّ:

کھانے میں زہر ملانا..... فَلَاتَا بِسُوءِ:

ملوث کرنا قَشَبَتِ الرِّيحُ فَلَاتَا: ہوا کا

تکلیف دینا۔ قَشَبَ الشُّيُ: سیلا پھیلنا کرنا۔

قَشَبٌ قَشَابَةٌ الشُّيُ: پاکیزہ ہونا۔ صاف

ہونا۔

إِقْشَبٌ: نیک نامی یا بدنامی حاصل کرنا۔

تَقَشَبَ السَّيْفُ: تلوار کا زنگ خوردہ ہونا۔

إِسْتَقْشَبَهُ: گندہ بھجنا۔

القَشَابُ: فا۔ درزی۔ کزدر نس والہ۔

واقعی عیوب بیان کرنے والہ۔

القَشَبُ: گندہ۔

القَشَبُ: نس۔ زنگ۔ سخت خشک۔ زہر

..... مِنَ الطَّعَامِ: کھانے کا ردی حصہ ج

أَقْشَابٌ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ قَشَبٌ

جَشَبٌ" بے خیر آدمی (جَشَبٌ: تابع حمل

ہے)

القَشَبَةُ: بے خیر۔ مرد خیس۔

القَشَبُ: زہر۔ ج أَقْشَابٌ.

القَشَبُ: نیارہا۔ سَيْفٌ قَشَبٌ: صیقل شدہ

یا زنگ خوردہ تلوار۔

القَشَبُ: نیا۔ سحر۔ سفید ج قَشَبٌ

وَقَشَبٌ.

سَيْفٌ قَشَبٌ: صیقل شدہ تلوار۔ زنگ

خوردہ تلوار۔

القَشَابِيُّ: پرانی چادر۔

المُقْشَبُ: غیر خالص۔ حَسَبٌ مُقْشَبٌ

وَرَجُلٌ مُقْشَبُ الحَسَبِ: مرد جس کا

حسب خالص نہ ہو۔

الْقَشِيرُ: ردی قسم کا اون۔ اون کا وہ حصہ جو

صاف کرتے وقت گر جائے اور پھینک دیا

جائے۔

القَشَبَارُ: سخت چھڑی۔ رَجُلٌ قَشَبَارٌ

الْبَحِيحِيُّ وَقَشَابِرْهَا: لمبی داڑھی والا۔

قَشَبَرٌ: باریک بان کو جمع کرنا۔

قَشَدَةٌ (ن) قَشَدًا: بربہد کرنا۔ کھولنا۔

القَشْدَةُ: پتلا کھن۔ بالائی۔ ایک بہت دودھ

والا پودہ..... والقَشَادَةُ: مٹی کا تھپتھ۔

قَشْرَةٌ (ن ض) قَشْرًا وَقَشْرَةٌ: کھال یا

چھال اُتارتا..... القَوْمُ: بدشگون لانا۔

قَشْرٌ (س) قَشْرًا: موٹی کھال والا ہونا۔

تَقَشَّرَ وَانْقَشَرَ: چھل جانا۔

إِقْشَرَ الرَّجُلُ: ننگا ہونا۔ صفت مُقْشِيرٌ.

القَشِيرُ: چھلکا۔ لباس ج قَشُورٌ (.....)

وَالْقَشِيرُ: بالشت کے برابر ایک مچھلی۔

القَشْرَانُ: ٹڈی کے دونوں پر۔

القَشِيرُ وَالْقَشِيرُ: بہت چھلکے والا۔ کہا جاتا

ہے "تَشَرَّ قَشِيرٌ وَقَشِيرٌ" یعنی چھلکے والی

کھجور۔

القَشْرُ: سخت سرخی۔

القَشْرَةُ وَالْقَشْرَةُ وَالْقَشْرَةُ: بارش جو سطح

زمین کو صاف کر دے۔ القَشْرَةُ: نخوس۔

القَشْرَةُ: چھال۔

القَشِيرُ: فا..... مِنَ الخَيْلِ: گھوڑوڑ میں

آخری گھوڑا۔

القَشَابِرَةُ: قشایر کا موٹ۔ پہلا زخم جو

کھال کو پھاڑ دے۔ عورت جو اپنے چہرہ کو

مل دل کر صاف کرے۔

القَشْرِيَاتُ: سخت اور مضبوط جسم والے

جانور کچھ خشکی والے اور زیادہ پانی والے

جیسے سرطان، مکڑی اور جھینگا مچھلی۔

القَشُورُ وَالْقَشُورَةُ مِنَ الاغْوَامِ: سخت قوط

کا سال۔ سَنَةٌ قَشُورَةٌ وَقَشُورٌ: قوط کا

سَالُ القَشُورِ: نخوس..... مِنَ الخَيْلِ: گھوڑ

دوڑ کا آخری گھوڑا۔

القَشَارُ: سانپ کی کھال۔

القَشَابَةُ: اُتارنا ہوا چڑایا چھال۔

الاقْشَرُ: چھلکا اُتارنا ہوا۔ گرمی کی وجہ سے

چھلی ہوئی ناک والا۔ سخت سرخی والا۔

اِبرص۔ بہت سوال کرنے والا..... مِنَ

الأَرْضِ: سرخ سفید زمین۔ مَوْنَتُ قَشْرَاءَ

ج قَشْرَاءَ: شجرہ قَشْرَاءَ: کہیں کہیں سے

چھلا ہوا درخت۔ حَيْةٌ قَشْرَاءٌ: پینچلی سے

علیحدہ سانپ۔

القَشُورُ: چہرہ کو صاف کرنے والی دوا۔

المُقْشَرُ: مفعول کہا جاتا ہے "جَاءَ بِالْجَوَابِ

المُقْشَرُ" واضح جواب دیا "رَجُلٌ مُقْشَرٌ"

ننگا مرد۔

المِقْشَرُ: سوال میں اصرار کرنے والا۔

قَشَطُهُ (ض ن) قَشَطًا: لامی سے مارنا۔

قَشَطَ عَنْهُ سَخْدًا: ننگا کرنا۔

قَشَطَ الرَّجُلُ: لوٹنا۔ صفت مُقْشِطٌ.

تَقَشَطَ وَانْقَشَطَ: ننگا ہونا۔ تَقَشَطَتْ

وَانْقَشَطَتِ السَّمَاءُ: صاف بے ابر ہونا۔

القَشَطَةُ: بالائی۔

القَشَاطُ: بربہد کرنا۔

المِقْشَطُ: چھال یا کھال اُتارنے کا آلہ۔

المِقْشَطَةُ: عَيْدُ العَقَادِيْنِ: ریشم کے

دھاگوں کو صاف کرنے کا آلہ۔

قَشَعٌ (ف) قَشَعًا القَوْمُ: متفرق کرنا۔

قَشَعَتْ وَأَقْشَعَتِ الرِّيحُ السَّحَابَ: ہوا کا

بادلوں کو پراگندہ کرنا۔ أَقْشَعَتِ القَوْمُ: متفرق

ہونا۔ أَقْشَعُوا عَنِ المَاءِ او المَكَانِ: بہت

جانا۔ علیحدہ ہو جانا۔ أَقْشَعَتِ السَّحَابُ:

بادل کھل جانا۔

قَشَعٌ (س) قَشَعًا: خشک ہونا۔

إِنْقَشَعَ اللَّيْلُ: رات ختم ہونا۔

إِنْقَشَعَ وَتَقَشَعَتِ السَّحَابُ: بادل کھل

جانا۔ تَقَشَعَتِ القَوْمُ: متفرق ہونا۔ إِنْقَشَعَ

چھیلنا..... الوُجْهَةُ: چہرہ پونچھنا۔ اور کہا جاتا ہے قَشَاةٌ عَنِ حَاجَتِهِ: یعنی اس کو اس کی حاجت سے باز رکھنا۔

أَقْشَى إِقْشَاءً: تو نگری کے بعد محتاج ہونا۔

تَقَشَّى: الشَّى: چھل جانا۔

القاشی: قا۔ کھونا پیر۔

القشَاء: تھوک۔

القشوة: کھجور کے پتوں کی ٹوکری جس میں عورتیں رُوئی یا عطر وغیرہ رکھتی ہیں ج قشَاء وقشوات.

القشلة: فوج کے اترنے کی جگہ۔

القشوان: کمزور۔ مؤنث قشوانة.

القشبی من الذراہم: کھولے دراہم۔

المقشوو المقشئی: چھیلنا ہوا۔

قَصَّ (ن) قَصًّا: الشَّعْرَ وَنَحْوَهُ: قینچی سے

بال وغیرہ کاٹنا..... النَّسَاجَ النَّوْبَ: چھوڑ

کاٹنا..... قَانُ: کان کے اطراف کو کاٹنا اور کہا

جاتا ہے "مَا يَنْقُصُ فِي يَدِهِ شَيْءٌ" کوئی چیز

اس کے ہاتھ میں باقی نہیں رہتی (.....)

وَأَقْصَّ (م) الْمَوْتَ فَلَانَا: قریب الموت

ہونا۔ کہا جاتا ہے "ضَرَبَهُ حَتَّى قَصَّهَ عَلَيَّ"

النَّوْبَ أَوْ أَقْصَهُ مِنَ الْمَوْتِ" اس کو مارا

یہاں تک کہ موت کے قریب پہنچا دیا۔

قَصَّتْ وَأَقْصَبْتُ الشَّاةَ: حمل ظاہر ہونا۔

صفت مَقْصَصٌ ج مَقْصَصٌ أَقْصَصَ الْأَمِيرُ فَلَانَا

مِنْ فَلَانٍ: بدل لے لینا۔ وَأَقْصَصَ الرَّجُلُ مِنْ

نَفْسِهِ: اپنے آپ سے بدل لے دینا۔

قَصَّ (ن) قَصًّا عَلَيْهِ الْخَيْرَ: بیان کرنا

(.....) قَصًّا وَقَصًّا: آہستہ آہستہ

بیرونی کرنا۔

قَصَّصَ الشَّيْءَ: بکڑے بکڑے کرنا۔

قَاصٌّ قِصَاصًا وَمَقَاصِدُ الرَّجُلِ بِمَا كَانَ

لَهُ قَبْلَهُ: بدل میں روک لینا۔ قَاصُّهُ: بدل

لینا۔ قَاصِحٌ: لینا۔

تَقَصَّصَ آثَرَهُ: بیرونی کرنا..... الْكَلَامَ: یاد

کرنا۔

تَقَاصَّ الْقَوْمُ: ایک دوسرے سے بدل لینا۔

مونا عمر رسیدہ شیر۔ ج قَشَاعِمٌ وَقَشَاعِيمٌ.
القشعَامُ والقشعَمَانُ والقشعَمَانُ: بزاز
گدھ۔ عمر رسیدہ مرد یا گدھ۔

القشعامة: جال۔

القشعوم: چھوٹے جسم والا۔ چچڑی۔

قَشِيفٌ (س) قَشِيفًا وَقَشِيفٌ (ك)
قشافة.

وَتَقَشِيفٌ: بد حال ہونا۔ بھٹے پرانے حال

والا ہونا۔ تنگ گزران ہونا۔ گندہ جسم ہونا۔

صَفَتٌ قَشِيفٌ وَقَشِيفٌ وَقَشِيفٌ وَقَشِيفٌ:

تنگ زندگی گزارنا۔ تَقَشِيفٌ فِي سَبَابِهِ:

پیوند لگے ہوئے اور میلے کیلے کپڑے پہننا۔

قَشِيفٌ لِلَّهِ عَيْشُهُ: تنگ زندگی کر دینا۔

عَامٌ أَقْشِفٌ: سخت سال۔

قَشِيفَةٌ مِنَ الْجَرَبِ أَوِ الْجُدْرِي: کھجلی یا

چچک سے صحت یاب کرنا۔

تَقَشِيفٌ: صحت یاب ہونا۔

القشيفة: مصل۔ گوشت بھوننے کی

آواز۔

قَشِمٌ (ن) قَشِمًا الطَّعَامَ: زیادہ کھانا۔

مزیدار خوراک کھانا۔

قَشِمٌ (ض) قَشِمًا: الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ:

داخل ہونا۔

إِقْشَمَهُ: ادھر ادھر سے کھانا۔

القشيم والقشيم: زمین میں پانی بہنے کی

نالی۔ گوشت جبکہ پک کر سرخ ہو جائے۔

القشيم: طبیعت۔ جسم۔ حال۔ بیت۔

چربی۔ جُزْءٌ قَشِيمٌ.

القشام والقشامة: دسترخوان پر بچا ہوا بیکار

حصہ۔

القشيم: خشک سبزی۔ ج قَشِمٌ: موت۔

المقشيم: قَشِمٌ: کا اسم طرف اور کہا جاتا

ہے مَا أَصَابَتْ الْأَهْلَ مَقْشِمًا: اونٹ نے

چراگاہ کو نہیں پایا۔

السقشمر: پتہ تدم۔ مونا گھسے ہوئے بدن

والا۔

قَشَا يَقْشُو قَشَوًا وَقَشَى الْقَوْدُ: بکڑی۔

القَوْمُ عَنِ أَمَا كُنْهِمْ: ذور ہونا۔ علیحدہ ہونا
..... أَلْهَمٌ عَنِ الْقَلْبِ: دل سے غم کا زائل
ہونا۔

القشع: مصل۔ پرانی پوستین۔ بے وقوف

شتر مرغ کا بڑ۔ چڑے کا خیمہ۔ ج قَشُوْعٌ:

پرانی منگ۔ بڑھاپے کی وجہ سے ڈھیلے

گوشت والا زنبیل۔ نر بچو۔ خشک شدہ مٹی کا

تکڑا۔ خشک کھال ج قِشْعٌ.

القشع والقشع: کھل جانے والا بادل۔

القشع والقشع والقشع: حمام کا کوڑا

کرکٹ۔

القشعة ج قشاع. القشعة ج قشع:

خشک کھال کا تکڑا۔ بادل کا تکڑا جو کھلنے کے

بعد باقی رہ جائے۔ القشعة: قشع کا اسم

مرآة۔ پرانی پوستین کا تکڑا۔ خشک شدہ مٹی کا

ایک تکڑا۔ بڑھیا۔ باوشالی۔

القشيع: خشک۔ غیر مستقل مزاج۔ ضَاةٌ

قَشِيعَةٌ: ذیلی تپتی بکری۔ أَرَاكِمَةٌ قَشِيعَةٌ: گنجان

بہت پتوں والا پیلو کا درخت۔

القشاع: بوسیدہ تکڑا۔ دھجی۔

القشاع: مادہ جوگی آواز۔

القشاعة: ریخت۔

القشيع من الكلاء: متفرق گھاس۔ کہا جاتا

ہے "هُوَ أَقْشَعُ مِنْهُ" یعنی وہ اس سے اشرف

ہے۔

إِقْشَرَ جِلْدُهُ: کانپنا۔ سٹنا۔ کھر دار ہونا۔

مخیر اللون ہونا۔ صفت مَقْشَعَرٌ ج

مَقْشَعَرُونَ وَقَشَاعِرٌ. وَأَقْشَعَرَتِ السَّنةُ:

قحط ہونا۔ خشک سالی ہونا..... الْأَرْضُ: زمین

کا بارش نہ ہونے سے خشک ہونا۔ کہا جاتا

ہے أَقْشَعَرُ الشَّعْرُ: خوف یا سردی کی وجہ

سے روٹنے کھڑے ہونا۔

الْمَقْشَعِرُ: بمعنی مَقْشَعِرٌ.

القشعورنة: کچکی۔

القشاعير: سخت کھال والا عمر رسیدہ۔

القشعر: بکڑی۔

القشعم: عمر رسیدہ (مرد یا عورت یا گدھ)

إِنْقَصُ: کٹ جانا۔

إِنْقَصُ: أَنْزَهُ: تابعداری کرنا..... مِنْ فُلَانٍ: قصاص لینا..... الخديك: روایت کرنا۔ نقل کرنا۔

إِسْتَفَصَهُ: قصاص یا بدلہ لینے کو کہنا۔

الْقَصُ: مَمَسُ: (..... والقصص) سینہ یا اس کی ہڈی۔ جِ قِصَاصٍ: قَصَصُ الشَّاةِ: بھیڑ کا کتا ہوا اون۔

القَصِصَةُ: قِصٌّ: کا اسم مرہ۔ چوناج قِصَاصٍ.

القِصَّةُ: قِصٌّ: کا اسم نوع۔ بات۔ واقعہ۔ حالت جِ قِصَصٍ وَأَقْصِیصٍ.

القِصَّةُ: پیشانی کے بال۔ بالوں کا گچھا۔ جِ قِصَصٍ وَقِصَاصٍ.

القِصَاصُ: ایک قسم کا درخت ہے جس کو شہد کی کھی جاتی ہے۔ واحد قِصَاصَةٌ.

القِصَاصُ: گناہ کی سزا۔ بدلہ۔

القِصَاصُ: سر پر پٹی چلنے کی جگہ وقِصَاصُ الشَّعْرِ: بتخلیث القاف: بال نکلنے کی متجا آگے یا پیچھے کی جگہ۔

القِصَاصُ: وہ پودا جس کو شہد کی کھی چائے۔ القِصَاصَةُ: بال یا ناخن کا تراش۔

القِصِیصُ: سینہ کے بال نکلنے کی جگہ۔ ایک قسم کی نباتات جو سانپ کی چھتری کی جڑوں میں ہوتی ہے اور اس سے سر دھوتے ہیں۔ واحد قِصِیصَةٌ۔ جِ قِصَاصِیصٍ.

القِصِیصَةُ: اونٹ کہ جس سے قافلہ کی بیروی کی جائے۔ قِصِصَةٌ: چھوٹا اونٹ کہ جس پر کھانا اور اثاثہ لادیں۔ جماعت جو ایک جگہ میں جمع ہو۔ کہا جاتا ہے کہ تَرَكْنَهُمْ قِصِیصَةً وَاحِدَةً یعنی میں نے ان کو ایک جگہ میں مجتمع حالت میں چھوڑا۔

القِصَاصُ: قِصَصٌ: خلیب۔ واعظ۔ القِصَاصُ: اجرت لے کر جمع میں قصہ بیان کرنے والا۔ وہ شخص جو اونٹ وغیرہ کے بال اتارنے کا پیشہ کرتا ہو۔

المُقَصِّصُ: مَفْصَعٌ: پیشانی کے بالوں والا۔

زَجَلٌ مُقَصِّصٌ: بڑے سینہ والا۔

المَقَصُّ: اثر۔ نشان۔

المِقْصُصُ: قِیچی۔ جِ مَقْصَاصٍ.

قَصَبٌ (ض) قَصَبًا: کائنا۔ قَصَبُ الشَّاةِ: بکری کے عضو کائنا (..... قِصْبًا وَقِصْبَانًا)

التَّغْيِرُ: اونٹ کا پانی پینے سے باز رہنا..... الإنسانَ وَغَيْرَهُ: پانی پینے سے باز رکھنا اور سیرابی سے پہلے روک دینا..... الرَّجُلُ: کسی کو گالی دینا۔

قَصَبُهُ: گالی دینا۔ قَصَبُ الشَّعْرِ: بالوں کو گھٹکھرا لے کر بنا کر..... الزَّرْعُ: دُخْلٌ وَالِی ہونا..... فُلَانًا: ہاتھوں کو گردن سے ملا کر باندھنا۔

أَقْصَبُ: المَكَّانُ: زکل والی ہونا۔ السَّرَاعِی: چرواہے کے اونٹوں کا پانی پینے سے باز رہنا۔

أَقْصَبُ الشَّیْ: اپنے لئے کائنا۔ القِصْبُ: پیٹھ۔ آنت۔ جِ اِقْصَابٍ.

القِصْبُ: ہر وہ جس میں پورے اور گرہیں ہوں جیسے ہنس اور زکل۔ قِصْبُ السُّكْرِ: گنا۔ القِصْبُ: ہاتھ پاؤں کی ہڈیاں۔

گول اور لمبی جوف دار ہڈی۔ گودے والی ہڈی۔ حلق کی نالی۔ مستطیل جو ہڑ۔ چشمے سے پانی بہنے کی جگہ۔ آنسو بہنے کی جگہ۔ مردار پر آبدار تازہ۔ زبرد آبدار تازہ۔ جو یا قوت سے مرصع ہو۔ کہا جاتا ہے "أَخْرَزَ قِصْبَ السَّبَبِ" یعنی غالب رہا اور اس کی اصل یوں ہے کہ میدان مسابقت میں ایک ہنس گاڑ دیا کرتے تھے کہ جو شخص آگے بڑھ جاتا تھا وہ اُسے اکھاڑ لیتا تھا تاکہ غالب رہنے کی علامت ہو۔

القِصْبَةُ: واحد ہے قِصْبٌ کا۔ شہر کا یا ملک کے شہروں میں بڑا شہر۔ گاؤں یا گاؤں کے درمیان نیا کھدا ہوا کنواں۔ بالوں کا لینا ہوا گچھا۔ قِصْبَةُ الإِضْبَعِ: انگلی کا سرا۔ قِصْبَةُ المَرْمَرِ: زرخرہ قِصْبَةُ الأَنْفِ: ناک کا بانس۔ قِصْبَةُ الرِّیةِ: پیپہروے کی نالی۔

القِصْبِيُّ: اسی کا باریک کپڑا جِ قِصْبٍ.

القِصَابُ: فا۔ ہانسری بجانے والا۔ قِصَائِي۔ بادل۔ بہت گرہنے والا۔ جِ قِصَابٍ

(..... والقِصِیصِ) مِنَ الأبلِ: پانی سے رکنے والا اونٹ۔ کہا جاتا ہے بَعِیْرٌ قِصِیْبٌ وَنَاقَةٌ قِصِیْبٌ.

القِصْبَاءُ: بہت سے ہانس۔ زکل یا ہانس اگنے کی جگہ۔ واحد قِصْبَاءَةٌ. أَجْمَةٌ قِصْبَاءُ: بہت زکل یا ہانسوں والی جھاڑی۔ زکل یا ہانس کا جھگڑل۔

القِصَابُ: ہانسری بجانے والا۔ قِصَائِي۔ القِصَابَةُ: قِصَابٌ کا مؤنث۔ لوگوں کے عیوب بیان کرنے والا۔ جِ قِصَابٍ.

القِصَابَةُ جِ قِصَابٍ (..... والقِصِیصَةُ والقِصِیصَةُ) جِ تَقَاصِبٍ وَتَقَاصِیْبٍ: بالوں کا پیچیدہ گچھا۔ القِصَابَةُ: ہانسری۔ القِصِیصَةُ: زکل کی پوری۔ ہانس کی پوری۔ بالوں کا گچھا۔ جِ قِصَابٍ.

القِصَابَةُ: قِصَائِي کا پیشہ بالوں کا پیچیدہ گچھا۔ القِصُوبُ مِنَ الغنمِ: بھیڑ کہ جس کا اون اتار دیا جائے۔

المُقَصِّصَةُ: ہانس یا زکل نکلنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "أَرْضٌ قِصِیصَةٌ وَمُقَصِّصَةٌ" بہت زکل یا ہانس والی سر زمین۔

المُقَصِّصُ: فا۔ سبقت لے جانے والا۔ دودھ کہ جس پر گاڑھا جھاگ ہو۔

المُقَصِّصُ: مَفْصَعٌ..... مِنَ القِیَابِ: تشدہ کپڑا۔ شَعْرٌ مَقْصَبٌ: گھٹکھرا لے لے بال۔ قِصْبَلٌ قِصْبَلَةٌ الطَّعَامِ: سب کھا لینا۔

قِصْدٌ (ض) قِصْدًا الرَّجُلُ وَلَهُ وَالِیہِ: توجہ کرنا..... لِیہِ: اعتماد کرنا۔ قِصْدٌ قِصْدَةٌ: اس کی طرف جانا..... فِی مَشِیہِ: سیدھی چال چلنا۔

..... فَلَانًا عَلِی الأَمْرِ: مجبور کرنا۔ کہا جاتا ہے "أَقْصِدْ بِذُرْعِكَ" یعنی ٹھہرو تو وقت کرو (..... وَقِصْدُ الشَّیْ) تَوَرُّتًا قِصْدٌ وَقِصْدُ الشَّاعِرِ: قصائد بنانا۔ قِصْدٌ

القَصَائِدُ: مہذب کرنا۔ درست کرنا۔

قَصَدَ (ض) قَصْدًا وإِقْتَصَدَ فِي الأَمْرِ: درمیان روی کرنا..... فِئْسَ النِّفَقَةُ: متوسط خرچ کرنا۔ اِقْتَصَدَ فِي أَمْرِهِ: مستقیم ہونا۔

قَصَدَ (ك) قِصَادَةَ البَعِيرِ: اونٹ کا موٹا ہونا۔

أَقْصَدُهُ: ٹھیک نشانہ پر نیزہ مارنا..... الحَيَّةُ فَلَانَا: سانپ کا کسی کو ڈس کر مار ڈالنا۔

إِقْصَدَهُ السُّهُمُ: تیر مارنا اور اسی جگہ ٹل دینا۔ أَقْصَدَ الشَّاعِرُ: قصائد بتانا کہا جاتا ہے "أَقْصَدَنِي النِّكَ الأَمْرُ" یعنی مجھے تیرے پاس آنے پر برا سمجھتا کیا۔

تَقَصَّدَ الكَلْبُ وغیره: مرنا۔ تَقَصَّدَهُ: ارادہ کرنا۔ کسی کو اس کی جگہ پر مار ڈالنا..... وإِنْقَصَدَ الرُّوحُ: نیزہ کا ٹوٹنا۔

القَصْدُ: ہمس۔ راستہ کی استقامت۔ میانہ روی۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ قَصْدٌ" یعنی نہ تو بڑے ڈیل ڈول کا ہے اور نہ بلا "طَرِيقٌ قَصْدٌ" سیدھا راستہ اونٹ علی قَصْدٍ یعنی

وہ ہدایت پر ہے "وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدٌ السَّبِيلُ" اللہ کے اوپر ایسے راستہ کا بیان کرنا ہے جو سیدھا ہو اور حق تک پہنچانے والا ہو۔ "هُوَ قَصْدُكَ أَوْ قَصْدُكَ" وہ تمہارے مقابل ہے۔

القَصْدُ مِنَ العَوْسَجِ وَنَحْوِهِ: نرم و نازک ٹہنیاں۔ ہر خاردار درخت اگے وقت۔ واحد قَصْدَةٌ القَصْدُ: بھوک۔ رَمَحَ قَصِدًا وَقَصِيدًا وَأَقْصَادًا: ٹوٹا ہوا نیزہ۔

القَصِيدُ مِنَ البَعِيرِ: تین سے لے کر زائد شعروں کی نظم اور بعض نے کہا ہے کہ سولہ سے لے کر زائد شعروں کی نظم۔ درست اور مہذب کی ہوئی نظم۔ القَصِيدُ: موٹا گودا۔ خشک گوشت۔ لاشی۔ موٹی جوان اونٹنی۔ موٹا کوبان۔

القِصْدَةُ: توڑی ہوئی چیز کا ٹکڑا۔ ج قَصَدَ القِصُودُ: موٹا گودا۔

القِصِيدَةُ مِنَ البَعِيرِ: سات یا دس اشعار سے زائد نظم۔ لاشی۔ قَصِيدٌ كَأَحَدٍ: ج

قَصِيدٌ وَقِصَائِدٌ.

القاصد: فنا۔ مِنَ السَّفَرِ: آسان اور قریب کا سفر۔ طَرِيقٌ قَاصِدٌ: سیدھا راستہ۔ ج قَوَاصِدٌ.

القَاصِدَةُ: قاصد کا مؤنث۔ کہا جاتا ہے "بَيْنَنَا وَبَيْنَ المَاءِ لَيْلَةٌ قَاصِدَةٌ" ہمارے اور پانی کے درمیان ایک رات کی مسافت ہے جس میں نہ تعب ہے اور نہ تاخیر ج قَوَاصِدٌ.

المُقَصَّدُ: مفتح۔ جو شخص بیمار ہو اور فوراً مری جائے۔

المَقْصِدُ: مکان۔ قصد۔ تم کہتے ہو "بابک مقصدی" تمہارا دروازہ میرے لئے جائے قصد ہے۔ ج مَقَاصِدٌ.

رَجُلٌ مُقْصَدٌ وَمُقْتَصِدٌ: درمیانے جسم کا نہ موٹا نہ لاغر۔

المُقَصَّدَةُ: مفتح۔ علامت جو اونٹوں کے کان میں ہوتی ہے۔

القَصْدِيُّ: برا ٹکا۔ ایک معدنی چیز ہے جس سے جڑائی اور قلعی کا کام لیا جاتا ہے۔ ایک ٹکڑے کو قَصْدِيَّةٌ کہتے ہیں۔

قَصَرَ (ن) قِصُورًا الشَّيْءُ: ناقص ہونا۔ ارزاں ہونا..... عَنِ الشَّيْءِ: رُکنا اور عاجزی کی وجہ سے چھوڑ دینا..... عَنَهُ الغَضَبُ أَوْ الوَجَعُ: غضب یا درد میں سکون ہونا..... السُّهُمُ عَنِ الهَدَفِ: تیر کا نشانہ پر نہ پہنچنا..... هَذَا البُقْعَةُ: مقصود کو نہ پہنچانا..... الطَّعَامُ: بڑھتا..... اللُّحْمُ: گراں ہونا..... (قَصْرًا) قَيْدَ البَعِيرِ: خشک کرنا.....

الصَّلَاةُ وَمِنَ الصَّلَاةِ: چار رکعت کے بجائے دو رکعت پڑھنا..... الشَّيْءُ: روکنا..... البِئْرُ: پرودہ لگانا..... بِهَ اللَّيْلِ: روکنا..... الدَّارُ: گھر کو دیواروں سے محفوظ کرنا اور کہا جاتا ہے "قَصَرَتْ بِكَذَا نَفْسُكَ" جبکہ تم شی قلیل کو مانگو۔

قَصْرَهُ (ض) قِصْرًا: فِئْسَ: قید کرنا..... عَلِيٌّ الأَمْرُ: لوٹانا۔ واپس کرنا۔ قِصْرٌ

الشَّيْءُ عَلِيٌّ كَذَا: مختصر کرنا۔ محدود کرنا۔

قَصَرَ نَفْسَهُ عَلِيٌّ كَذَا: دوسرے کی طرف نگاہ نہ اٹھانا..... الظَّلَامُ: مخلط ہونا۔ وَقَصَرَ عَلِيٌّ نَفْسِيَهُ نَاقَةً: اپنے لئے خاص کر لینا۔ نَاقَةٌ: کو مَقْصُورَةٌ کہیں گے..... الشَّيْءُ: چھوٹا کرنا۔

قَصُرَ (ك) قِصْرًا وَقِصْرًا وَقِصَارَةً: چھوٹا ہونا۔

قِصْرٌ (س) قِصْرًا: خشک گردن والا ہونا۔ گردن میں درد ہونا۔ صفت قِصِرٌ وَأَقْصَرُ: مؤنث قِصْرَةٌ وَقِصْرَاءٌ.

قِصْرُ الشَّيْءِ: چھوٹا کرنا..... الثُّوبُ: کپڑے کو ٹپکنا اور سفید کرنا..... فِئْسَ العَطِيَّةُ: کم کرنا..... فِئْسَ الأَمْرُ: کوتاہی کرنا۔ قَصَرَ عَنِ الأَمْرِ: باوجود قدرت کے رُکنا..... مِّنَ شَعْرِهِ: بال چھانٹنا..... عَنِ الشَّيْءِ: طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے چھوڑنا..... عَنَهُ الوَجَعُ أَوْ الغَضَبُ: درد یا غصہ میں سکون ہونا۔

أَقْصَرَهُ: چھوٹا کرنا۔ طول کم کرنا..... فَلَانٌ: شام کے وقت داخل ہونا۔ أَقْصَرَتِ المَرْأَةُ: چھوٹے چھوٹے بچے جننا۔ أَقْصَرَ السَّمَطُ: بارش رک جانا..... الكَلَامُ: مختصر کلام کرنا..... مِّنَ الصَّلَاةِ: بجائے چار کے دو رکعت پڑھنا..... (وَتَقَاصَرَ) عَنِ الأَمْرِ: باوجود قدرت کے باز رہنا۔ تَقَاصَرَ تَالِوُجُلٌ: کوتاہی ظاہر کرنا۔ تَقَاصَرَ الظُّلُ: سایہ کا سمنٹا۔ تَقَاصَرَتِ نَفْسُهُ: یہ تکلف چھوٹا بیٹا۔

تَقَصَّرَ: بفلان: مشغول ہونا۔ أَقْصَرَ عَلِيٌّ كَذَا: اکتفا کرنا۔ أَقْصَرَهُ: گردن کی جڑ پکڑنا۔

إِسْتَقْصَرَهُ: کوتاہ یا کوتاہی کرنے والا سمجھنا۔ القَاصِرُ: فنا..... مَاءٌ قَاصِرٌ: گھاس سے درد اور بقول بعض شُحْنًا۔ مَخْلَاءٌ قَاصِرٌ: گھاس کے اس کے اور پانی کے درمیان میں کتے کی آواز کا کہنے کا قاصد ہو۔

قَصَرَ (س) قِصْرًا: خشک گردن والا ہونا۔ گردن میں درد ہونا۔ صفت قِصِرٌ وَأَقْصَرُ: مؤنث قِصْرَةٌ وَقِصْرَاءٌ.

قِصْرُ الشَّيْءِ: چھوٹا کرنا..... الثُّوبُ: کپڑے کو ٹپکنا اور سفید کرنا..... فِئْسَ العَطِيَّةُ: کم کرنا..... فِئْسَ الأَمْرُ: کوتاہی کرنا۔ قَصَرَ عَنِ الأَمْرِ: باوجود قدرت کے رُکنا..... مِّنَ شَعْرِهِ: بال چھانٹنا..... عَنِ الشَّيْءِ: طاقت نہ رکھنے کی وجہ سے چھوڑنا..... عَنَهُ الوَجَعُ أَوْ الغَضَبُ: درد یا غصہ میں سکون ہونا۔

أَقْصَرَهُ: چھوٹا کرنا۔ طول کم کرنا..... فَلَانٌ: شام کے وقت داخل ہونا۔ أَقْصَرَتِ المَرْأَةُ: چھوٹے چھوٹے بچے جننا۔ أَقْصَرَ السَّمَطُ: بارش رک جانا..... الكَلَامُ: مختصر کلام کرنا..... مِّنَ الصَّلَاةِ: بجائے چار کے دو رکعت پڑھنا..... الشَّيْءُ: روکنا..... البِئْرُ: پرودہ لگانا..... بِهَ اللَّيْلِ: روکنا..... الدَّارُ: گھر کو دیواروں سے محفوظ کرنا اور کہا جاتا ہے "قَصَرَتْ بِكَذَا نَفْسُكَ" جبکہ تم شی قلیل کو مانگو۔

قَصْرَهُ (ض) قِصْرًا: فِئْسَ: قید کرنا..... عَلِيٌّ الأَمْرُ: لوٹانا۔ واپس کرنا۔ قِصْرٌ

القاصِر (قاصر) کا مؤنث۔ اِمْرَاةٌ قَاصِرَةٌ الطرف: عورت جو اپنی نگاہ کو صرف اپنے شوہر ہی پر مرکوز رکھے۔ القَصْر: محض۔ بہت لکڑی محل۔ قَصْرُ المَجد: مجد شرافت کی کان۔ ج قَصُور۔ القِصر: چھوٹا پن۔ القَصْر والقَصَار والقَصَارِ والقَصَارِي: غایت۔ انتہا۔ کہا جاتا ہے "قَصْرُکِ او قَصَارُکِ او قَصَارُکِ او قَصَارُکِ، اَنْ تَفْعَلَ کَذَا" تمہاری انتہائی طاقت یہ ہے کہ تم ایسا کرو۔ کہا جاتا ہے "اِنَّ عَمِي قَصْرَةٌ او قَصْرَةٌ" اود میرا قریبی چچا زاد بھائی ہے۔ القَصْر والقَصْرَةُ والقَصْرِي والقَصْرِي والقَصَارَةُ: غلہ کا کوڑا کرکٹ جو چھلتی میں باقی رہ جائے۔ دائیں کرنے کے بعد خوشہ میں جو دانہ باقی رہ جائے۔ القَصْرِي والقَصْرِي: سانپ کی ایک قسم۔ والقَصْرِي: آخرام۔ القَصْرِيَان: بجلی کی دو ہڈیاں جو چنبر گردن کے قریب ہیں۔ القَصْرِي والقَصْرِي: دائیں کرنے کے بعد خوشہ میں جو دانے باقی رہ جائیں اور کہا جاتا ہے "زَجَلُ قَصْرِي" یعنی خاص اور اس کی نظیر ہے "زَجَلُ عَمِي" یعنی عام۔ القَصْرَةُ: لکڑی کا ٹکڑا۔ پردہ کی دم کی جڑ۔ گردن کی موٹی جڑ۔ ج قَصْر وَاَقْصَار وَقَصْرَاتِ القَصْرَةِ: کاہلی سستی۔ القَصَارَةُ: کشادہ۔ مضبوط مکان۔ قَصَارَةٌ الْأَرْضِ: زمین کا زرخیز ٹکڑا۔ القِصَارَةُ: دھولی کا پیشہ۔ پست قد عورت۔ کہا جاتا ہے اِمْرَاةٌ قِصَارَةٌ: یعنی پست قد عورت۔ قِصْر: شاہانِ روم کا لقب ج قِصَايِرَةُ۔ القِصَار والقِصَارَةُ: ہار مالا ج تقاصير۔ القِصِير: چھوٹا۔ چھوٹے قد والا۔ مِثْلُ قِصِيرٍ: سیلاب جو وادی کو نہ بھرے۔ قِصِيرٌ	العِلْم: علم۔ ج قِصَار وُقُصَاء مَوْنِث قِصِيْرَةٌ ج قِصَار وُقُصِيْرَات وُقُصَاوِر۔ الْأَحَادِيثُ القِصَار: جامع اور مفید باتیں۔ القِصِيْرَةُ والقِصُوْرَةُ والقِصُوْرَةُ مِنَ النِّسَاء: وہ عورت جس کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ ہو اور کہا جاتا ہے "هُوَ اَبْنُ عَمِي قِصِيْرَةٌ" وہ میرا قریبی چچا زاد بھائی ہے۔ قِصِرْنَ قِصَايِر: ہر رومی بادشاہ کا لقب۔ القِصَار: اسم مبالغہ۔ دھولی۔ الاقصر: اسم تفضیل۔ ج القاصِر وَاَقْصُرُونَ مؤنث قَصْرِي ج قَصْر وُقُصِيْرَات۔ الاقصير: بعض عرب کے ایک نبت کا نام۔ المقصر والمقصرَةُ: دھولی کا تختہ۔ المقصر والمقصر والمقصرَةُ: شام۔ ج مَقَاوِر وَمَقَاوِيْر وَمَقَاوِيْر الطَّرِيقِ: راستے کے اطراف۔ واحد مقصرَةُ: کہا جاتا ہے هُوَ بَحَارِي مَقَاوِيْرِي: یعنی اس کا محل میرے محل کے مقابل ہے۔ المَقَاوِيْر: درخت کی جڑیں۔ واحد مَقْصُوْر۔ المَقْصُوْرَةُ: مضبوط کشادہ مکان۔ دھولی ڈالین کا مزین کرہ۔ مَقْصُوْرَةُ الدَّارِ: کرہ ج مَقَاوِيْر اور کہا جاتا ہے "هُوَ اَبْنُ عَمِي مَقْصُوْرَةٌ" وہ میرا قریبی چچا زاد بھائی ہے۔ قَصْع (ف) قَصْعًا: پانی کے گھونٹ لگانا۔ القَمْلَةُ بظْفَرِه: جوں کا ناخن سے مار ڈالنا۔ قَصَعَتِ الرَّحْمِي النَّحْبَ: بچکی کا دانہ کو پینا۔ السَّرْجُلُ: ذلیل کرنا۔ حقیر کرنا۔ قَصْع الرَّجُلِ او هَامَتَهُ: سر پر تھپھر مارنا۔ قَصْع وُقُصَع البَيْتِ: لازم رہنا..... النَّاءُ عَطَشُهُ: بھانا۔ کہا جاتا ہے "قَصْع او قَصْع الشَّيْطَانِ فِي قَفَاة" یعنی غضبناک ہو اور بدخلق ہو۔ قَصْع وُقُصَع الجُرْحُ بِالذَّم: زخم کا خون سے بھرنا..... النَّاقَةُ بِجُرْتِيهَا: جگال کو لوٹا دینا۔ قَصْع الرَّجُلِ فِي تَوْبِهِ: کپڑے میں لپٹنا۔ قَصْع الضَّبِّ: گودہ کا	سوراخ کے منہ کو بند کر دینا۔ قَصْع الزُّرْعِ مِنَ الْأَرْضِ: اُگنا۔ قَصْع (س) قَصْعًا وُقُصَع (ک) قَصَاعَةُ الغُلَامِ: جوان ہونے میں تاخیر ہونا۔ تَقْصَعُ الجُرْحُ بِالذَّم: زخم کا خون سے بھرنا البَيْتِ: لازم رہنا..... اليَرْبُوعُ النُّرَابِ: جنگلی چوہے کا سوراخ سے مٹی نکلانا۔ القَصْعَةُ: پیالہ۔ ج لِصْع وُقُصَاع وَقِصَاعَات۔ القِصَاع: کا۔ ساز۔ پیالہ بنانے والا۔ القِصْعَةُ ج قِصْع وَاَلْقِصْعَاء والقِصْعَاء وَالْقِصَاعَةُ وَالْقِصَاعِيَاء ج قِصَاعِ وَالْقِصَاعِيَاء: جنگلی چوہے کا بل۔ الغُلَامُ القِصِيْعُ مؤنث قِصِيْعَةٌ وُقُصِيْع وَالْقِصَعِ مؤنث قِصَعَةٌ وَالْمَقْصُوْعُ: مؤنث مقصوعہ درمیں جوان ہونے والا۔ المِقْصَعُ مِنَ السُّيُوفِ: شمشیر براں۔ أَقْصَعَتِ الشَّمْسُ: آفتاب کا وسط آسمان میں پہنچنا۔ القِصْعُلُ: کینہ۔ نا اہل۔ بچھو۔ بچھو کا بچہ۔ بجھڑے کا بچہ۔ قِصْف (ض) قِصْفًا الشَّيْ: توڑنا..... الشَّيْ: ٹوٹنا..... قِصْفًا وُقُصِفًا الرَّغْدُ: بادل کا زور سے گرجنا..... البَعِيْرُ: اونٹ کا دانت پینا اور بڑا دانت۔ قِصْف (ن) قِصْفًا وُقُصُوفًا: کھانے پینے کھیل کود میں زیادہ مشغول رہنا۔ قِصْف (س) قِصْفًا العُوْدُ: کمزور وضعیف ہونا۔ صفت أَقْصَف وُقُصِف..... البَيْتِ: لپے ہونے کی وجہ سے جھک پڑنا..... الرَّجُلُ كَمُزُورٍ وَضَعِيْفٌ ہونا..... الرَّوْمُحُ: تیزہ کا عرض میں پھٹ جانا..... النَّابُ: دانت کا آدھا ٹوٹنا۔ القَنَاةُ: بغیر جدا ہوئے ٹوٹنا۔ قِصْفَةٌ: توڑ دینا۔ أَقْصَفُ العُوْدُ: نرم و ہار یک ہونا.....
---	--	---

أَقْصَفُوا عَنْهُ: عاجز ہو کر چھوڑ دینا۔

تَقَصَّفَ: ٹوٹنا..... عَلِيَهُ الْقَوْمُ: قوم کا اکٹھا ہونا..... الْقَوْمُ: قوم کا جھگڑے یا دھمکی میں شور مچانا۔

تَقَاصَفَ الْقَوْمُ: اکٹھا ہونا۔ بھیڑ کرنا۔

انْقَصَفَ: ٹوٹنا..... السَّيْلُ: سیلاب کا رواں ہونا..... الْقَوْمُ: غنہ: سستی کی وجہ سے چھوڑ دینا..... عَلَيْهِ: بے درے آنا۔

القَصْفُ والقُصُوفُ: ٹھیل کود کھانے پینے میں مشغولیت۔ القَصْفُ: باج کی آواز۔ شور۔ ٹھیل کود کا اعلان۔

القُصُوفُ والقَصْفَةُ: اونٹ کی بڑبڑاہٹ اونٹ کے دانٹوں کی آواز۔

القَصْفَةُ: شہسواروں کی جماعتوں کا ایک

دوسرے پر دباؤ۔ بڑھی کاپا یہ..... مِنَ الْقَوْمِ: بھیڑ جھوم۔ ج قَصْفٍ وَقُصْفَانٍ.

القاصيف: فا۔ زَعْدٌ قاصيفٌ: بہت گرجنے والا بادل۔ رِيحٌ قاصيفٌ او قاصِفَةٌ: بہت تیز ہوا۔

القَصِيفُ: مرد سر بیچ الاکنار۔ القَصِيفُ البَطْنُ: بھوک کی تاب نہ رکھنے والا (..... والقَصِيفُ) دو برابر حصوں میں ٹوٹنا ہوا۔ القَصِيفُ: درخت کا ٹوٹا ہوا حصہ۔

الاقصيف: وہ شخص جس کا دانت آدھے حصہ سے ٹوٹ جائے۔

المنقصف: کھانے پینے ٹھیل کود کی جگہ ج مقاصيف (مولدة)

قَصَّقَصَ: الشئُ: توڑنا..... بِالْجُرْدِ: کتے کے لپے کو بلانا۔

تَقَصَّقَصَ: اثره: بیرونی کرنا..... كَلَامُهُ: یاد کرنا۔

حَيَّةٌ قَصَاقِصٌ وَقَصَاقِصٌ: خبیث سانپ۔ اَسَدٌ او رَجُلٌ قَصَاقِصٌ ج قَصَاقِصٌ وَقَصَاقِصَةٌ وَقَصَاقِصَةٌ: قصابوں کا ہونا یا پتہ قد شیر یا مرد۔

القَصْقَصُ: سینہ میں بال نکلنے کی جگہ۔ آواز۔

قَصَلَ (ض) قَصْلًا الشئُ: کاٹنا۔ صفت

فَاعِلٌ قَصَلَ اور صفت مفعولٌ قَصِيلٌ وَمَقْصُوفٌ..... الحِنطَةُ: گیہوں کا دامن کرنا..... الذبابة وَعَلِيهَا: جانور کو کئی کھلانا۔

چارہ دینا..... غَنَقَةُ: گردن پر مارنا۔

تَقَصَّلَ وَانْقَصَلَ: کٹنا۔

اِقْتَصَلَ: الشئُ: کاٹنا..... الشئُ: کٹنا۔

اِقْصَالَ بِهِ: قبضہ کرنا..... بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔

القَصْلُ: مہم۔ (..... والقَصِيلُ والقَصْلُ والقَصَالَةُ) گیہوں کا ردی حصہ جو بھیجک دیا

جائے یا دوبارہ دائیں کیا جائے۔ القَصْلُ: بے خبر۔ بے وقوف۔ کمزور۔ مَوْنَتٌ قِصْلَةٌ.

القِصْلَةُ والقِصْلَةُ: اونٹوں کا گلہ۔

سَيْفٌ قَصِيلٌ وَقِصَالٌ وَمَقْصَلٌ: شمشیر براں۔ لِسَانٌ مَقْصَلٌ: تیز زبان۔ القِصَالُ: شیر۔

القَصِيلُ: سبز جو۔ جو کات کر جانوروں کو چارہ دیا جائے۔ جماعت۔ ج قِصْلَانٍ: فقہاء کی اصطلاح میں قَصِيلٌ: وہ کھیتی جو ابھی تیار نہ ہوئی ہو۔

المقصلة: نار ڈالنے کا ایک آلہ جس میں چھری ہوتی ہے اور مجرم کے سر پر گرتی ہے۔ القِصْلُبُ: قوی۔ توانا۔

قَصَمَ (ض) قَصْمًا الشئُ: توڑنا..... الرَجُلُ: ہلاک کرنا..... فَلَانٌ: سفر توڑ دینا

اور واپس آنا اور کہا جاتا ہے "قَصَمَ اللہُ ظَهْرَ الظالمِ" اللہ کا ظلم کی پیٹھ کو توڑ دے یعنی اس پر کوئی مصیبت نازل کرے "وَقَصَمَ اللہُ عَظْمَ الْكافِرِ" اللہ نے کافر کی زندگی ختم کر دی۔

قَصِمَتْ (س) قَصْمًا: سُنُّهُ: اگلے دانت کا نصف سے ٹوٹنا۔

تَقَصَّمَ وَانْقَصَمَ: ٹوٹنا۔

القَصَمُ: اگلے دانت کا نصف سے ٹوٹنا۔ نڈی کے انڈے۔ واحد قَصْمَةٌ.

القَصْمَةُ والقَصْمَةُ: گلڑا۔

القَصْمَةُ: قَصَمَ: کا اسم مرثیہ۔ بڑھی کاپا یہ گلڑا۔ کہا جاتا ہے نَزَلَتْ بِهِمْ قاصِمَةٌ الظَّهْرُ: یعنی ان پر ہلاکت واقع ہوئی۔

القَصِيمُ والقَصِيمُ: جلدی ٹوٹنے والا۔ کمزور۔

القَصِيمَةُ: قَصِيمٌ: کا مَوْنَتٌ۔ ریتلی زمین جس میں کثرت سے غصا کے درخت ہوں۔ ج قَصِيمٌ وَقَصِيمٌ وَقَصَائِمٌ: کہا جاتا ہے "ذَهَبُوا يَخِطِبُونَ فِي الْقَصِيمِ" وہ لوگ غصا درخت کی کڑیوں کو چرنے رہے تھے۔

القَصُومُ: ایک خوشبودار دوائی کا نام۔ القَصْمُ: ہر چیز کو توڑ دینے والا۔

الاقصم: وہ شخص جس کا گلا دانت ٹوٹا ہوا ہو۔ مَوْنَتٌ قِصْمَاءٌ ج قِصْمٌ. القِصْمَاءُ

مِنَ الْمَغْزِ: بکری جس کا سینگ ٹوٹ کر علیحدہ ہو گیا ہو۔

قَصَمَلَ الرَّجُلُ: چلنے میں چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا..... هُ: بچھا ڈر دینا..... الشئُ: کاٹنا

..... الطَّعَامُ: سب کھا جانا (..... وَتَقَصَمَلَ) القَصِيلُ قَصَمَلَ کی بیماری والا ہونا

(قَصَمَلَ) ایک بیماری ہے جو اونٹوں کے بچوں کو ہوتی ہے جس سے وہ مر جاتے ہیں۔

القَصَمَلُ والقَصَمِلُ: مضبوط مرد۔ القَصَمِلُ: شیر کہا جاتا ہے "النقمة

القِصْمَلِي" یعنی بہت حرص سے کھایا۔ قِصَا يَقْصُو قِصْوًا وَقِصْوًا وَقِصَا وَقِصَا

وَقِصِي يَقْصِي قِصَا الْمَكَانَ: دُور ہونا۔ الرَّجُلُ عَنِ الْقَوْمِ: علیحدگی اختیار کرنا۔

قِصَا يَقْصُو قِصْوًا النَّاقَةَ او الشاةَ: اونٹنی یا بکری کے کان کا تھوڑا سا کنارہ کاٹ دینا۔

قِصَى تَقْصِيَةُ النَّاقَةِ: بمعنی قِصَا يَقْصُرُ..... الاظفار: ناخن تراشنا۔

قِصَايُ مَقَاصَاةُ الرَّجُلِ: دُور کرنا۔ کہا جاتا ہے "قِصَايُ قِصْوَتُهُ" اس نے مجھ سے

دُور ہونا چاہا میں اس سے زیادہ دُور ہو گیا اور یہ اعمال مخالف میں سے ہے "هَلَمَّ

أَقْصَيْكَ أُنْبَا أَبْعَدَ مِنَ الشَّرِّ" آؤْتَمَّ مِنْهُ
مَقَابِلَهُ كَرِيْمٌ دِيكْحِيں ہم میں سے شَر سے کون
بَعِيد ہے۔

أَقْصَى فَلَانَا عَنْهُ دُورٌ كَرْنَا..... الشَّيْءُ: اِنْبَا
پَر پَنجَا تَا۔ كَبَا جَا تَا ہے "نَزَلْنَا مَنْزِلًا لَا
يُقْصِيهِ الْبَصَرُ" ہم ایسی جگہ پَر اُترے جس
کی اِنْبَا حُدُوب سے خَارِج ہے۔

تَقْضَى تَقْضِيًّا دُورٌ هُوَا..... (وَأَسْتَفْضِي)
الْمَنْأَلَةَ وَفِيهَا: مَسْئَلَةٌ كَرِيْمٌ كَرْنَا.....
وَتَقْضَاهُمْ: بَعِيدٌ لُغُوگُوں میں سے ایک ایک کو
بَا تَا۔

الْقَضَا: مَعْصُومٌ دُورٌ كَانِبٌ۔ كُنَارُهُ كَبَا جَا تَا
ہے "خَطِيئَةُ الْقَضَا" یعنی جُحْم سے دُور ہو جا۔
و "ذَقِيْبَةُ قَضَاءٍ" میں اس کی طرف چلا۔
الْقَضَا: اُوْنِيٌّ يَابِكْرِي كَانِ كَانِ كَانِ كَانِ
سے تھوڑا سا کٹا ہوا حصہ..... (وَالْقَضَاءُ) گھر
کے سامنے کا گھنٹن۔

الْقَضُوَّةُ: كَانِ كَانِ كَانِ كَانِ كَانِ كَانِ
الْقَضِيَّةُ: دُور۔ رَجُوعُ الْقَضَاءِ مَوْثِقٌ قَضِيَّةٌ رَجُوعُ
قَضَايَا كَبَا جَا تَا ہے "رَمِيَتْ الْمَرْمِيَّةُ
الْقَضِيَّةُ" یعنی تَم گمان اور تاویل میں بہت
دُور چلے گئے۔ الْقَضِيَّةُ: اَسْمَالٌ اُوْنِيٌّ۔
بَدَا مَصْلٌ اُوْنِيٌّ۔

الْقَضَايَا: فَا۔ دُور۔ بَعِيدٌ۔ قَضَاوُنٌ
وَأَقْضَاءُ.
الْقَضَايَا: قَامِسٌ كَامَوْثِقٌ۔ كُنَارُهُ۔ نَعْمَةٌ
قَضَايَا: بُوْرُحِيٌّ بِيْضٌ۔ الْقَضَايَا مِنَ الشَّاءِ:
رِيُوْرٌ سے عَلِيْمٌ ہونے والی بکری۔

الْأَقْضَى: مَوْثِقٌ قَضَاوَاءُ (وَالْمَقْضُو
وَالْمَقْضَى وَالْمَقْضَى) مِنَ الْجَمَالِ:
اُوْنِٹ جس کے کَانِ کا کُنَارُہ ذُرَا سا کٹا ہوا
ہو اور ایسے ہی شَاةٌ مَقْضُوَّةٌ وَ مَقْضَاةٌ۔

الْأَقْضَى: اِسْمٌ تَفْصِيْلٌ۔ زِيَادَةٌ دُور۔ رَجُوعُ
اِقْضَايَا: مَوْثِقٌ قَضَاوِيٌّ وَقَضَايَا.
الْقَضَاوِيٌّ وَالْقَضَايَا: وَاِدِيٌّ كَانِ كَانِ دُورٌ كِي
حَد۔

قَضُ (ن) قَضَا الشَّيْءُ: سُوْرَاخٌ كَرْنَا۔ كُوْنَا

.....الْوَتْدُ: كُوْنُوْتُ اُكْثِرْنَا..... الْحَايِطُ:
دِيوَارٌ كُوْرُوْرٌ سے ڈھانٹا..... عَلَيْهِمُ الْخَيْلُ:
كُوسِي جَمَاعَتٌ پَر گھوڑوں کو بِيْجِيْنَا اور مَتَفَرَّقٌ
كَرْنَا..... الطَّعَامُ: كَحَانِے میں كُوْنِي شُكْلٌ چِيْرُ
مِثْلًا كُرِيَا شُكْرُوْرٌ اِنْبَا۔

قَضُ (ض) قَضِيْبًا الشَّيْرُ وَالْوَتْرُ:
چِيْرُ چَرْنَا اِنْبَا۔

قَضُ (ض) قَضِيْبًا الْمَكَانُ او الطَّعَامُ:
جگہ یا كَحَانِے کا كُنْكُرِي دَار ہونا..... عَلَيْهِ
الْمَضْجَعُ: خَوَابِگَاہ کا سَخْت ہونا۔ كَبَا جَا تَا ہے
"قَضُ الرَّجُلِ" جِكِدَةٌ نِيْنِدْنَا آئے اور آ سُوْدُگِي
حَاصل نہ ہو۔

أَقْضَى الْمَكَانِ او الطَّعَامِ: بِمَعْنَى قَضُ.
الْمَضْجَعُ: خَوَابِگَاہ کا سَخْت ہونا۔ كَبَا جَا تَا ہے
"أَقْضَى عَلَيْهِ الْمَضْجَعُ" یعنی خَوَابِگَاہ خَاك
آو اور سَخْت ہو گئی "وَأَقْضَى عَلَيْهِ الْهَمُّ"
یعنی اس پَر غَم نَا زِل ہوا..... اللّٰهُ مَضْجَعُهُ:
خَوَابِگَاہ کو كُھر دَار كَرْنَا..... الرَّجُلُ: بَارِيك
اُسُوْر کے دَر پے ہونا۔

انْقَضُ: ثُوْنَا..... الْجَدَارُ: دِيوَارٌ كَا پِشْنَا
كَرْنَا۔ انْقَضَتِ الْخَيْلُ عَلَي الْقَوْمِ:
گھوڑوں کا مَتَشَرُّر ہونا۔ كَبَا جَا تَا ہے قَضِيْبًا
عَلَيْهِمْ الْخَيْلُ فَانْقَضَتْ عَلَيْهِمْ: ہم نے
ان پَر گھوڑے دُوْر آئے پس وہ ان پَر ثُوْت
پڑے..... (وَتَقْضَى الطَّائِرُ: پَرندے کا
نِيْچے اُترنا اور كَبَا جَا تَا ہے تَقْضَى تَقْضِيًّا:
دُور سے ضَاوُ كُوِيَا سے بَدَل كَر۔ جِيْمَا تَقْضَى:
سے تَقْضَى: اور لِيْضُوں نے كَبَا ہے كَر قَضُ:
سے تَفْعَل: كے وَزْن پَر يَا سے بَدَل كَرِي
اِسْتِمَال ہوتا ہے۔

انْقَاضُ الْجَدَارِ: دِيوَارٌ كَا پِشْنَا۔ كَرْنَا۔
اِسْتَقْضَى الْمَضْجَعُ: خَوَابِگَاہ کو كُھر دَار پَا تَا۔
..... الطَّعَامُ وَالْمَكَانِ: كُنْكُرِي دَار ہونا۔
اِسْتَقْضَى الْهَمُّ: غَم كَا زُوَال جَا پَنَا۔
اِقْضَى: بَكَارَت زَاكِل كَرْنَا۔
الْقَضُ وَالْقَضُضُ: مِمَادِر۔ كُنْكُرِي۔
الْقَضُضُ: خَاكٌ جُو كِجْجُوْنِے پَر پڑ جَا ئے۔

قَضَبُ (ض) قَضَبَا الشَّيْءُ: كَانَا۔
الرَّجُلُ: كُوسِي كُو شَاخ سے مَارْنَا..... النَّاقَةُ:
اُوْنِيٌّ پَر سَدُ حَانِے سے قَمَل سُوَار ہونا۔
قَضَبُ الشَّيْءِ: كَمْلُوے كَمْلُوے كَرْنَا..... الْكِرْمُ:
: مَوْسِمٌ بِيْهَار میں اِنْگُوْر كِي شَاخِيں تَرَا شَا..... (.....)
وَتَقْضَبُ شُعَاعُ الشَّمْسِ: آقَاب كِي
كَرْنَا كَا پِشِلْنَا وَ تَقْضَبُ الشَّيْءُ: كَمْلُوے
كَمْلُوے ہونا۔

أَقْضَبَتِ الْأَرْضُ: زَمِيْنٌ كَا بِنْرُهُ زَار ہونا۔
سَاگ پَا تَا اُگَا نَا۔

القَضُ وَالْقَضِيْبُ وَالْأَقْضَى: جَسٌ مِیں
كُنْكُرِي ہوا اور كَبَا جَا تَا ہے "جَاءَ الْقَوْمُ
قَضَهُمْ وَقَضِمَ وَقَضَهُمْ وَقَضَّضَهُمْ
وَقَضِيْبُهُمْ وَبَقَضِيْبُهُمْ" یعنی سب
آئے۔ قَضُ كَانِبٌ مَصْدَرٌ يَا حَال كِي بِنَا پَر
اور رَفْع تَا كِي دِكْب سے كَلْمِے كے قَامِمْ
مَقَام ہوا كَر۔

القَضَةُ: قَضُ: كَا اِسْمٌ مَرَّةً۔ قَضَاضُ: كَا وَاحِدٌ
بِمَعْنَى بَدَل بِنْر۔ چھوٹا ٹِيْلہ۔ كُنْكُرِي۔ چِيْرُ كَا
بَقْد۔ دھَاكے كِي چھوٹی اِنْبِي۔ اَرْضُ قَضَةٌ:
كُنْكُرِي والی زَمِيْن۔

الْقَضَةُ: جَسٌ۔ چھوٹی كُنْكُرِيَاں۔ رَجُوعُ
قَضَاتٍ. وَالْقَضَةُ: دُور شِيْر كِي۔
الْقَضَةُ وَالْقَضَةُ: عِيْب۔

قَضِيٌّ يَقْضَى قَضَا الشَّيْءُ: كَحَانَا..... السِّقَاءُ:
مِثْلٌ كَا خَرَاب ہونا۔ بَدَل بُوْدَار ہونا۔

..... الْعَيْنُ: آكُھ كَا سَرخ ہونا..... الثُّوْبُ او
الْحَيْلُ: كِپڑے یا رَتِي كَا بُو سِيْدہ ہونا اور
كَمْلُوے كَمْلُوے ہونا..... قَضَاً وَقَضَاءَةً)
حَسْبُهُ: تَبَاہ ہونا..... أَقْضَاءُهُ: كَمْلَا تَا..... كَبَا
جَا تَا ہے تَقْضَاً مِیں فَلَانٌ اَنْ يَزُوْجُهُ: یعنی
اس كے حَسْب كُو ذَمِيْل سِجھا اور كَا ح كَرْنَا
سے اِنْكَار كَر دِيَا۔

القَضَاةُ وَالْقَضَاةُ: عِيْب۔ فِئَادُ۔ عَار۔
القَضِيَّةُ: خَرَاب بَدَل بُوْدَار۔ كَبَا جَا تَا ہے سِقَاءُ
قَضِيٌّ وَقِرْبَةٌ قَضِيَّةٌ: خَرَاب اور بَدَل بُوْدَار
مِثْلٌ۔

قَضَبُ (ض) قَضَبَا الشَّيْءُ: كَانَا۔
الرَّجُلُ: كُوسِي كُو شَاخ سے مَارْنَا..... النَّاقَةُ:
اُوْنِيٌّ پَر سَدُ حَانِے سے قَمَل سُوَار ہونا۔
قَضَبُ الشَّيْءِ: كَمْلُوے كَمْلُوے كَرْنَا..... الْكِرْمُ:
: مَوْسِمٌ بِيْهَار میں اِنْگُوْر كِي شَاخِيں تَرَا شَا..... (.....)
وَتَقْضَبُ شُعَاعُ الشَّمْسِ: آقَاب كِي
كَرْنَا كَا پِشِلْنَا وَ تَقْضَبُ الشَّيْءُ: كَمْلُوے
كَمْلُوے ہونا۔

أَقْضَبَتِ الْأَرْضُ: زَمِيْنٌ كَا بِنْرُهُ زَار ہونا۔
سَاگ پَا تَا اُگَا نَا۔

القَضُ وَالْقَضِيْبُ وَالْأَقْضَى: جَسٌ مِیں
كُنْكُرِي ہوا اور كَبَا جَا تَا ہے "جَاءَ الْقَوْمُ
قَضَهُمْ وَقَضِمَ وَقَضَهُمْ وَقَضَّضَهُمْ
وَقَضِيْبُهُمْ وَبَقَضِيْبُهُمْ" یعنی سب
آئے۔ قَضُ كَانِبٌ مَصْدَرٌ يَا حَال كِي بِنَا پَر
اور رَفْع تَا كِي دِكْب سے كَلْمِے كے قَامِمْ
مَقَام ہوا كَر۔

القَضَةُ: قَضُ: كَا اِسْمٌ مَرَّةً۔ قَضَاضُ: كَا وَاحِدٌ
بِمَعْنَى بَدَل بِنْر۔ چھوٹا ٹِيْلہ۔ كُنْكُرِي۔ چِيْرُ كَا
بَقْد۔ دھَاكے كِي چھوٹی اِنْبِي۔ اَرْضُ قَضَةٌ:
كُنْكُرِي والی زَمِيْن۔

الْقَضَةُ: جَسٌ۔ چھوٹی كُنْكُرِيَاں۔ رَجُوعُ
قَضَاتٍ. وَالْقَضَةُ: دُور شِيْر كِي۔
الْقَضَةُ وَالْقَضَةُ: عِيْب۔

الْقَضْبُ: كُنَّا..... الْكُوْكُوبُ مِنْ مَكَايِهِ: الشُّعْرُ وَالْكَلَامُ: فِي الْبَدِيَةِ شِعْرًا يَا كَلَامًا - الْقَضْبَةُ (ف) الْقَضْبُ: مَغْلُوبٌ كَرْنَا - مَقْبُورٌ كَرْنَا - الْقَضْبُ الشُّيْ: كَاثِنَا..... الْكَلَامُ: فِي الْبَدِيَةِ كَهْنَا..... السَّنَاقَةُ: اَدْنَى رِسْدِهَانِي مِنْ قَبْلِ سَوَارِ هُونَا..... فَلَا تَا: اَجْمَعِي طَرِحَ سَعَامِ كَرْنِي كِي صَلَاحِيَتِ سَعَقَلِ اس كِي كَرْنِي كِي تَكْلِيْفِ دِيْنَا - الْقَضْبُ: لَبِيٌّ اَوْرَلِكِي هُونِي شَاخُوں وَاَلَا دَرِخْت - اِيكِي دَرِخْتِ كَا نَامُ جَسِ كِي لَكْزِي سَعِ كَمَا نِ بِنَا يَا كَرْتِي تَحِي - كَنِي هُونِي شَاخِي - وَاحِدُ قَضْبِيَةِ. الْقَضْبِيَةُ: شَاخٌ - دَرِخْتِ نَبِيْع: كَا بِي بِنَا هُوَا تِيْر - جِ قَضْبَاتِ. الْقَضْبِيَةُ: سَاغٌ تَرَوْتَا زَهْ جُو كَهَا يَا جَائِي جِ قَضْبِ. الْقَضْبِيَةُ: اَوْنُوں يَا كَبْرِيُوں كَا لَكْه - سَبَكِ اَوْرِ لَيْفِ (مَرْدِيَا اَوْنِي) الْقَضْبِيَةُ: كَنِي هُونِي شَاخٌ - بَغِيْر سِدْهَانِي هُونِي اَوْنِي - جِ قَضْبَانِ وَقَضْبَانِ. الْقَضْبِيَةُ: شَمِيْرِي بَرَاں - كَمَا نِ جُو دَرِخْتِ شَاخِ سَعِ بِنَا يَا هُونِي هُو - سَبْفُ قَضَابِ جِ قَوَاضِبِ وَقَضَابِ وَقَضَابِيَةِ وَمِقْضَبِ: بَهْتِ تِيْزِ كَانِي وَآلِي تَلَوَارِ جُلِّ قَضَابِيَةِ: اَمُوْرَا كَا اَجْمَعِي طَرِحِ طِي كَرْنِي وَآلَا - الْقَضَابِيَةُ: قَاضِبِ: كَا مَوْنُتِ - كَهَا جَاتَا سَعِ "مَا لِيْ هِيْ قَاضِيَةٌ" يَمْنِي مِيْرِي سَعِ مَنُ مِيں كُوْنِي دَانْتِ نَمِيں - الْقَضَابِيَةُ: كَا لِيْ هُونِي جِيْزِ كِي كَلُوْرِي - اَلْقَضْبُ: دَرَانْتِي - اَلْقَضَابُ: دَرَانْتِي - بَهْتِ كَانِي وَآلَا - اَرْضُ مِقْضَابِ: سَبْزِي زَارِزِ مِيْنِ - سَاغٌ پَاتِ اُكَا نِي وَآلِي زَمِيْنِ - الْمَقْضِيَةُ: سَاغٌ پَاتِ اُكَا نِي كِي جَكْه - جِ مَقْضَابِ وَمَقْضَابِيَةِ. الْمَقْضَبُ: كَامِ كَرْنِي كِي صَلَاحِيَتِ نَدِ هُونِي سَعِ پَهْلِي اس كِي كَرْنِي كِي تَكْلِيْفِ دِيَا هُوَا - اَوْزَانِ شِعْرِي مِيں اِيكِي بَجْرَا كَا نَامُ..... مَنُ

الْقَضْبُ: كُنَّا..... الْكُوْكُوبُ مِنْ مَكَايِهِ: الشُّعْرُ وَالْكَلَامُ: فِي الْبَدِيَةِ شِعْرًا يَا كَلَامًا - الْقَضْبَةُ (ف) الْقَضْبُ: مَغْلُوبٌ كَرْنَا - مَقْبُورٌ كَرْنَا - الْقَضْبُ الشُّيْ: كَاثِنَا..... الْكَلَامُ: فِي الْبَدِيَةِ كَهْنَا..... السَّنَاقَةُ: اَدْنَى رِسْدِهَانِي مِنْ قَبْلِ سَوَارِ هُونَا..... فَلَا تَا: اَجْمَعِي طَرِحَ سَعَامِ كَرْنِي كِي صَلَاحِيَتِ سَعَقَلِ اس كِي كَرْنِي كِي تَكْلِيْفِ دِيْنَا - الْقَضْبُ: لَبِيٌّ اَوْرَلِكِي هُونِي شَاخُوں وَاَلَا دَرِخْت - اِيكِي دَرِخْتِ كَا نَامُ جَسِ كِي لَكْزِي سَعِ كَمَا نِ بِنَا يَا كَرْتِي تَحِي - كَنِي هُونِي شَاخِي - وَاحِدُ قَضْبِيَةِ. الْقَضْبِيَةُ: شَاخٌ - دَرِخْتِ نَبِيْع: كَا بِي بِنَا هُوَا تِيْر - جِ قَضْبَاتِ. الْقَضْبِيَةُ: سَاغٌ تَرَوْتَا زَهْ جُو كَهَا يَا جَائِي جِ قَضْبِ. الْقَضْبِيَةُ: اَوْنُوں يَا كَبْرِيُوں كَا لَكْه - سَبَكِ اَوْرِ لَيْفِ (مَرْدِيَا اَوْنِي) الْقَضْبِيَةُ: كَنِي هُونِي شَاخٌ - بَغِيْر سِدْهَانِي هُونِي اَوْنِي - جِ قَضْبَانِ وَقَضْبَانِ. الْقَضْبِيَةُ: شَمِيْرِي بَرَاں - كَمَا نِ جُو دَرِخْتِ شَاخِ سَعِ بِنَا يَا هُونِي هُو - سَبْفُ قَضَابِ جِ قَوَاضِبِ وَقَضَابِ وَقَضَابِيَةِ وَمِقْضَبِ: بَهْتِ تِيْزِ كَانِي وَآلِي تَلَوَارِ جُلِّ قَضَابِيَةِ: اَمُوْرَا كَا اَجْمَعِي طَرِحِ طِي كَرْنِي وَآلَا - الْقَضَابِيَةُ: قَاضِبِ: كَا مَوْنُتِ - كَهَا جَاتَا سَعِ "مَا لِيْ هِيْ قَاضِيَةٌ" يَمْنِي مِيْرِي سَعِ مَنُ مِيں كُوْنِي دَانْتِ نَمِيں - الْقَضَابِيَةُ: كَا لِيْ هُونِي جِيْزِ كِي كَلُوْرِي - اَلْقَضْبُ: دَرَانْتِي - اَلْقَضَابُ: دَرَانْتِي - بَهْتِ كَانِي وَآلَا - اَرْضُ مِقْضَابِ: سَبْزِي زَارِزِ مِيْنِ - سَاغٌ پَاتِ اُكَا نِي وَآلِي زَمِيْنِ - الْمَقْضِيَةُ: سَاغٌ پَاتِ اُكَا نِي كِي جَكْه - جِ مَقْضَابِ وَمَقْضَابِيَةِ. الْمَقْضَبُ: كَامِ كَرْنِي كِي صَلَاحِيَتِ نَدِ هُونِي سَعِ پَهْلِي اس كِي كَرْنِي كِي تَكْلِيْفِ دِيَا هُوَا - اَوْزَانِ شِعْرِي مِيں اِيكِي بَجْرَا كَا نَامُ..... مَنُ

الْقَضْبُ: كُنَّا..... الْكُوْكُوبُ مِنْ مَكَايِهِ: الشُّعْرُ وَالْكَلَامُ: فِي الْبَدِيَةِ شِعْرًا يَا كَلَامًا - الْقَضْبَةُ (ف) الْقَضْبُ: مَغْلُوبٌ كَرْنَا - مَقْبُورٌ كَرْنَا - الْقَضْبُ الشُّيْ: كَاثِنَا..... الْكَلَامُ: فِي الْبَدِيَةِ كَهْنَا..... السَّنَاقَةُ: اَدْنَى رِسْدِهَانِي مِنْ قَبْلِ سَوَارِ هُونَا..... فَلَا تَا: اَجْمَعِي طَرِحَ سَعَامِ كَرْنِي كِي صَلَاحِيَتِ سَعَقَلِ اس كِي كَرْنِي كِي تَكْلِيْفِ دِيْنَا - الْقَضْبُ: لَبِيٌّ اَوْرَلِكِي هُونِي شَاخُوں وَاَلَا دَرِخْت - اِيكِي دَرِخْتِ كَا نَامُ جَسِ كِي لَكْزِي سَعِ كَمَا نِ بِنَا يَا كَرْتِي تَحِي - كَنِي هُونِي شَاخِي - وَاحِدُ قَضْبِيَةِ. الْقَضْبِيَةُ: شَاخٌ - دَرِخْتِ نَبِيْع: كَا بِي بِنَا هُوَا تِيْر - جِ قَضْبَاتِ. الْقَضْبِيَةُ: سَاغٌ تَرَوْتَا زَهْ جُو كَهَا يَا جَائِي جِ قَضْبِ. الْقَضْبِيَةُ: اَوْنُوں يَا كَبْرِيُوں كَا لَكْه - سَبَكِ اَوْرِ لَيْفِ (مَرْدِيَا اَوْنِي) الْقَضْبِيَةُ: كَنِي هُونِي شَاخٌ - بَغِيْر سِدْهَانِي هُونِي اَوْنِي - جِ قَضْبَانِ وَقَضْبَانِ. الْقَضْبِيَةُ: شَمِيْرِي بَرَاں - كَمَا نِ جُو دَرِخْتِ شَاخِ سَعِ بِنَا يَا هُونِي هُو - سَبْفُ قَضَابِ جِ قَوَاضِبِ وَقَضَابِ وَقَضَابِيَةِ وَمِقْضَبِ: بَهْتِ تِيْزِ كَانِي وَآلِي تَلَوَارِ جُلِّ قَضَابِيَةِ: اَمُوْرَا كَا اَجْمَعِي طَرِحِ طِي كَرْنِي وَآلَا - الْقَضَابِيَةُ: قَاضِبِ: كَا مَوْنُتِ - كَهَا جَاتَا سَعِ "مَا لِيْ هِيْ قَاضِيَةٌ" يَمْنِي مِيْرِي سَعِ مَنُ مِيں كُوْنِي دَانْتِ نَمِيں - الْقَضَابِيَةُ: كَا لِيْ هُونِي جِيْزِ كِي كَلُوْرِي - اَلْقَضْبُ: دَرَانْتِي - اَلْقَضَابُ: دَرَانْتِي - بَهْتِ كَانِي وَآلَا - اَرْضُ مِقْضَابِ: سَبْزِي زَارِزِ مِيْنِ - سَاغٌ پَاتِ اُكَا نِي وَآلِي زَمِيْنِ - الْمَقْضِيَةُ: سَاغٌ پَاتِ اُكَا نِي كِي جَكْه - جِ مَقْضَابِ وَمَقْضَابِيَةِ. الْمَقْضَبُ: كَامِ كَرْنِي كِي صَلَاحِيَتِ نَدِ هُونِي سَعِ پَهْلِي اس كِي كَرْنِي كِي تَكْلِيْفِ دِيَا هُوَا - اَوْزَانِ شِعْرِي مِيں اِيكِي بَجْرَا كَا نَامُ..... مَنُ

ومیت کرنا۔ قَضَى الرَّجُلُ وَقَضَى نَحْبَهُ
 وَقَضَى أَجَلَهُ وَقَضَى عَلَيْهِ: مرنا اور کہا جاتا
 ہے ضَرْبَهُ فَقَضَى عَلَيْهِ: یعنی مار ڈالا۔
 وَقَضَى مِنْهُ الْعَجَبُ: بہت زیادہ تعجب کیا۔
 وَلَا أَقْضَى مِنْهُ الْعَجَبُ: یعنی تعجب کا حق ادا
 کرنا ممکن نہیں کہ معاملہ بہت عظیم الشان
 ہے۔

قَضَى يَقْضِي قَضَاءً وَقَضِيًّا وَقَضِيَّةً بَيْنَ
 الْخَصْمَيْنِ: فیصلہ کرنا..... الْأَمْرَ لَهُ أَوْ
 عَلَيْهِ: موافق یا مخالف فیصلہ کرنا..... الشَّيْءُ:
 جمانا۔ بیان کرنا۔

قَضَى تَقْضِيَّةً وَقَضَاءً. وَطَرَهُ: حاجت
 پوری کرنا۔ مُرَادُ بَرَانَا..... الْأَمْرَ: معاملہ کو
 نافذ کرنا..... فَلَانًا: قاضی بنانا.....
 تَقْضِيَّةً: مرنا۔

قَاضَا مَقَاضَاةً. فَلَانَا إِلَى الْحَاكِمِ: فیصلہ
 کے لئے لے جانا..... عُلَى مَالٍ: صلح
 کرنا۔

تَقْضَى. الْبَايُزِي: باز کا ٹوٹ پڑنا۔ اس کی
 اصل تَقْضُضُ: بے شادانہ خیرہ کو خفیف کرنے
 لئے یا سے بدل دیا گیا ہے..... (وَأَقْضَى)
 الشَّيْءُ: فنا ہونا ختم ہونا۔

تَقَاضِيَا إِلَى الْحَاكِمِ: دونوں کا حاکم کے
 پاس فیصلہ کے لئے جانا۔ تَقَاضَاةُ الدِّينِ
 وَغَيْرُهُ: وبالذَّيْنِ: قرض کا تقاضا کرنا۔

أَقْضَى أَقْضَاءَ الْحَالِ كَذَا: چاہنا۔ لازم
 کرنا۔ أَقْضَاءَ الدِّينِ وَغَيْرُهُ: تقاضا کرنا۔

طَلَبَ كَرَامًا. وَأَقْضَى الْأَمْرَ الْوَجُوبَ:
 صیغہ امر کا وجوب پر دلالت کرنا۔ کہا جاتا
 ہے "أَفْعَلُ مَا يَقْتَضِيهِ كَرَامًا" وہ کرو جو
 تمہارے کرم کا تقاضا ہو۔

اسْتَقْضَى اسْتِقْضَاءً أَفْلَانًا الدِّينَ: قرض
 ادا کرنے کا مطالبہ کرنا۔ اسْتَقْضَى
 السُّلْطَانُ فَلَانًا عَلَيْنَا: قاضی بنانا.....
 فیصلہ کے لئے طلب کرنا. وَأَسْتَقْضَى فَلَانًا:
 قاضی بنایا جاتا۔

القَضَى وَالْقَضَاءُ: حُكْمٌ - اِدَاءٌ - نَجْأَتِيَّةٌ:

مصباح میں ہے کہ علماء قضا کا استعمال اس
 عبادت کے لئے کرتے ہیں جو شرعی حیثیت
 سے معین وقت کے علاوہ میں ادا کی جائے۔
 اور ادا وہ ہے جو وقت معین میں کی جائے اور
 یہ وضع لغوی کے خلاف ہے لیکن دونوں
 وقتوں میں تیز کے لئے اصطلاح ہے۔
 بعضوں نے کہا ہے کہ قضا مراد ہے عالم عقل
 میں تمام موجودات کے وجود سے جو مجتہد
 بطریق ابداع کے ہو اور قدر مراد ہے وجود
 خارجی سے جو متصل ایک کے بعد ایک ہو۔

القَضَى: موت۔ کہا جاتا ہے "زَجُلٌ قَضَى"
 مُرَدِّجِلُهُ: فیصلہ کرنے والا۔

القَضِيَّةُ: مَصْ - قَضَى: کا اسم ہے..... عند
 المنطِقِينَ: وہ قول جس کے کہنے والے کو سچا
 یا جھوٹا کہا جاسکے۔ نَجْأَتِيَّةٌ:

القَضَاةُ: ایک ترش قسم کی گھاس نَجْ قَضَى
 وَقَضَاتٌ وَقَضُونٌ.

القَضَايِي: فَا - حَاكِمٌ شَرْعِيٌّ - نَجْ قَضَاةً.
 قاضی القَضَاةُ: قاضیوں کا رئیس۔ چیف
 جسٹس۔ سَمٌّ قَاضٍ: زہر قاتل۔

القَضَايِيَّةُ: قاضی کا مَوْتٌ - موت۔ کہا جاتا
 ہے "أَتَتْ عَلَيْهِ الْقَضَايِيَّةُ" اسے موت
 آئی۔

القَضَاءُ: اسم مبالغہ - مضبوط زور۔

قَطَّ (ن) قَطًّا وَأَقْطَطَ. الْقَلَمُ وَنَحْوُهُ: قلم
 پر قِطْرٌ لگانا..... الْبَيْطَارُ حَاكِمٌ الدَّابَّةِ: سلوٹری
 کا چوپایہ کے کھر تراشنا۔

قَطَّ (ن ش) قَطًّا وَقَطُّوْطًا وَقَطَّ السِّغْرُ:
 بھاڈ گراں ہونا۔ صفت قَطَّ وَقَاطٌ وَقَاطِطٌ.
 قَطَّ وَقَطُّطٌ (س) قَطَطًا وَقَطَاةً الشَّعْرُ:
 بال چھوٹے اور گھٹکے یا لے ہونا۔ صفت قَطَّ
 وَقَطُّطٌ.

قَطَطَطَ الْخَرَّاطُ الْخَشْبَةَ: خرا دی کا گلدی کو
 تراشنا اور ہموار کرنا۔

أَقْطَطَ وَأَقْطَطَ الشَّيْءُ: منقطع ہونا۔

قَطَّ: حسب کے معنی میں آتا ہے جیسے قَطِي
 وَقَطُّكَ وَقَطُّ زَيْدٍ دِرْهَمٌ: بمعنی حسبی

وَحَسْبُكَ وَحَسْبُ زَيْدٍ دِرْهَمٌ: فرق یہ
 ہے کہ قَطُّ ہے اور حسب معرب ہے۔ اور
 اسم فعل ہو کر بمعنی یکیشی بھی مستعمل ہے۔ اس
 صورت میں نون و قایہ کے ساتھ بناء علی
 السکون کی حفاظت کے لئے قَطُّ کہا جاتا
 ہے۔ اگر تَقْلِيلُ کا ارادہ ہو تو ساکن کر دیتے
 ہیں۔ جیسے مَا عِنْدِي إِلَّا هَذَا قَطًّا اور اگر
 ہمزہ وصل کے ساتھ طے تو آخر کو کسرہ دے
 دیتے ہیں۔ جیسے مَا عَلِمْتُ إِلَّا هَذَا قَطُّ

السُّدْهُرُ اور کبھی تخمین لفظ کے لئے اس کے
 شروع میں فَا بھی داخل کر دیتے ہیں۔ جیسے
 "زَابِسُهُ مَرَّةً فَقَطُّ" یعنی میں نے اس کو
 صرف ایک ہی مرتبہ دیکھا۔

قَطُّ: طرفِ زمان ہے اور استغراقِ ماضی
 کے لئے آتا ہے اور نون کے ساتھ مختص ہے
 جیسے مَا فَعَلْتُ هَذَا قَطُّ اور کبھی قَطُّ اور قَطُّ
 بھی کہا جاتا ہے۔

القَطُّ: بَلِي - نَجْ قَطَاطٌ وَقَطَطَةٌ. قَطُّ الزَّبَادِ:
 دیکھئے لفظ الزَّبَادِ واحد قَطَّةٌ. القَطُّ: حصہ۔
 رات کا ایک حصہ۔ حساب کارجر۔ چک۔
 چٹھی۔ نَجْ قَطُّوْطٌ.

زَجُلٌ قَطَّ وَقَطُّطٌ: چھوٹے گھٹکے یا لے بال
 والا۔ نَجْ قَطُّوْنٌ وَقَطَاطٌ وَأَقْطَاطٌ:
 وَقَطُّوْنٌ وَأَمْرٌ أَقْطَةُ وَقَطُّطٌ:
 گھٹکے یا لے بال والی عورت۔

قَطَاطٌ: اسم فعل بمعنی حسب۔

السَّقَطُوْطِي: چھوٹے چھوٹے قدم رکھنے
 والا۔

القَطَاطُ: بالوں کا گھٹکے یا لے پن۔ سم کا گھیرا۔
 پہاڑ کا کنارہ۔ موندہ کہ جس کو دیکھ کر کوئی چیز
 قطع کریں نَجْ أَقْطَةُ (.....) والقَطِيَّةُ غار کا
 بالائی کنارہ نَجْ قَطَايِطٌ اور کہا جاتا ہے
 "جَاءَتْ الخَيْلُ قَطَايِطًا" گھوڑے گروہ
 گروہ آئے۔

القَطَاطُ: اسم مبالغہ۔ خرا د کرنے والا۔ سِغْرٌ
 قَاطٌ وَقَاطِطٌ وَمَقْطُوْطٌ: گراں بھاؤ۔

المَقْطُ وَالْمَقْطَةُ: قَطْرَانٌ -

۷۱
 ۱۱۷

الْمَقَطُّ: كهُوْرے کے پہلو کی ہڈی کے سرے کا منہا۔

قَطَب (ض) قَطْبًا الشَّيْءُ: کاٹنا۔ جمع کرنا۔
..... الشَّرَابُ: ملونی کرنا..... الإِنْسَاءُ: برتن بھرتا۔

..... الرَّجُلُ: غضبناک کرنا..... الْجَوَالِقُ: گون کے دونوں گوشوں کو ملانا..... الْقَوْمُ: جمع ہونا۔

قَطَب (ض) قَطْبًا وَقَطُونًا وَقَطَبِ الرَّجُلِ: ترش روئی کرنا۔ صفت قَطَبٌ وَقَطَبِ الشَّرَابِ: ملونی کرنا۔
أَقَطَبِ الشَّرَابِ: ملونی کرنا..... الْقَوْمُ: جمع ہوتا۔

القَطْبُ والقَطَبُ والقَطْبُ والقَطْبُ ج أَقْطَاب. القَطْبَةُ ج قَطَبٌ: جگی کی کیل جس پر جگی گھومتی ہے۔

القَطْبُ: فرقدین اور جدی کے درمیان ایک ستارہ کا نام جس سے قبیلہ کی تعیین کرتے ہیں۔ مدار کا کہا جاتا ہے "هُوَ قَطَبٌ ذَلِكَ الْأَمْرُ" وَصَاحِبُ الْجَيْشِ قَطَبٌ وَحَسْبُ الْحَرْبِ: سردار قوم۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ قَطَبٌ بَنِي فَلَانٍ" ج أَقْطَاب وَقَطُونٌ وَقَطْبَةٌ..... عِنْدَ الْجُغْرَافِيِّينَ: زمین کے محور کا کنارہ اور وہ دو ہیں قطب شمالی اور قطب جنوبی۔

القَطَبُ: کسی چیز کو لینے کے بعد باقی کو انکل سے بغیر وزن کے لینا۔ کہا جاتا ہے "أَخَذَهُ قَطْبًا" اس نے اسے انکل سے بغیر وزن کے لے لیا۔

القَطْبِيَّةُ: جگی کی کیل جس پر جگی گھومتی ہے۔ ایک قسم کی گھاس۔ القَطْبَةُ عِنْدَ الْجُغْرَافِيِّينَ: زمین کے محور کا کنارہ۔

القَطْبِيُّ: ایک قسم کی گھاس جس سے رسی بنائی جاتی ہے۔
أَلْقَطْبَانُ: ایک قسم کی گھاس۔

القَطَابُ: ملونی۔ گریبان کے ملنے کی جگہ۔
القَطَابَةُ: گوشت کا ٹکڑا۔

القَطْبُ والمَقَطُّوبُ: ملایا ہوا۔ القَطْبُ والقَطْبِيَّةُ: اُونٹنی اور بکری کا دودھ ملایا ہوا۔
القَطَابُ والقَطُونُ: ترش رو۔ شیر۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ وَأَقَابَةً وَيَقَطْبِيهِمْ" یعنی سب آئے اور قساطبہ حالت کی بنا پر منصوب ہے۔

قَطْرَةٌ (ن) قَطْرًا: سخت پچھاڑنا۔ قَطْرُ البَعِيرِ: اونٹ پر قطران ملنا..... الشَّوْبُ: کپڑے کو سینا اور کہا جاتا ہے "نَمَا أَفْرَى مِنْ قَطْرُهُ" او من قَطْرَبِهِ" مجھے نہیں معلوم کہ اس کو کون لے گیا (اور یہی لے کے ساتھ خاص ہے)..... قَطْرًا الرَّجُلُ: دانہ وغیرہ کو وزن سے لینا اور ماہی کو اسی حساب سے اندازے سے بغیر وزن کے لینا (.....)

قَطْرًا فِي الْأَرْضِ: جانا..... قَطْرًا وَقَطْرًا وَقَطْرًا: پانی کا بہنا اور

قطرہ قطرہ ٹپکانا..... الصَّنْعُ مِنَ الشَّجَرَةِ: درخت سے گوند نکلنا۔

قَطْر (ن) قَطْرًا وَقَطْرًا وَقَطْرًا: اُونٹوں کو ایک قطار میں کرنا۔ کہا جاتا ہے "قَطْرَ البَعِيرِ إِلَى البَعِيرِ: ایک اونٹ کو دوسرے اونٹ کے قریب کر دیا۔ قَطْرًا وَقَطْرًا المَاءُ: ایک ایک قطرہ ٹپکانا۔ قَطْرَ الدَّوَاءِ: کشید کرنا۔ قَطْرَ التَّوْبِ: کپڑے کو عود کی دھونی دینا۔ أَقَطَرَ النَّبْتُ: نباتات کی خشکی شروع ہونا..... الشَّيْءُ: ٹپکنے کا وقت قریب ہونا اور کہا جاتا ہے "طَعَنَهُ فَا قَطَرَهُ" نیزہ مارا اور ایک جانب پر گرا دیا۔ وَأَقَطَرَ المَاءُ: پانی کا بہنا۔

تَقَطَّرَ: عود کی دھونی دیا ہوا ہونا..... المَاءُ: پانی کا قطرہ قطرہ بہنا..... الرَّجُلُ: اپنے آپ کو اوپر سے پھینک دینا۔ گرنا..... عَسَنَ كَذَا: پیچھے رہنا..... بہ: ایک جانب گرا دینا۔

تَقَطَّرَ: قَوْمٌ: گروہ درگروہ پے در پے آتا۔

المَاءُ: پانی کا بہنا اور ایک ایک قطرہ گرنا

وَتَقَطَّرَ: کناروں کا مقابل ہونا۔

أَقَطَرَ وَأَقْطَارٌ: خشک ہونے لگنا..... النَّاقَةُ: اُونٹنی کا دم اور سر اٹھانا۔ وَأَقْطَارُ الرَّجُلِ: غضبناک ہونا۔

إِسْقَطَرَ المَاءَ وغیره: ٹپکانا۔ کشید کرنا۔
بَارَشَ: طلب کرنا۔

القَطْرُ: مہم۔ بارش۔ کسی بیٹے والی چیز کا قطرہ ج قَطَار.

القَطْرُ: تانبا۔ تانبے کی ایک قسم۔ پگھلا ہوا تانبا۔ ایک قسم کی چادر۔

القَطْرُ: اَلْقِيمُ۔ گوشہ۔ جانب ج أَقْطَار أَقْطَارُ الدُّنْيَا: دنیا کی چاروں جہتیں۔ وَقَطْرُ الدَّيَاةِ فِي الهِنْدِيَّةِ: وہ خط مستقیم جو دائرہ کو تقسیم کر دے اور مرکز سے گزر کر محیط پر ختم ہو۔ وَقَطْرُ المُرْبَعِ والمَسْتَقْبِلِ والمُعِينِ: اس خط مستقیم کو کہتے ہیں جو دو مقابل زوایے کے اندر ہو۔

القَطْرُ والقَطْرُ: عود۔ اگر۔

القَطْرُ: غلہ وغیرہ کو وزن سے لینا اور جب تھوڑا سا باقی رہ جائے تو بقیہ کو اسی حساب سے بلا وزن کے انکل سے لینا۔

القَطْرَةُ قَطْرٌ: کا اسم ہرۃ۔ تَطْرَجُ قَطْرَاتٍ کہا جاتا ہے "زَمَاءُ اللّٰهِ بِقَطْرَةٍ" اللہ اس پر مصیبت نازل کرے۔

القَطْرَةُ والقَطْرِيَّةُ: معمولی چیز۔ خیس چیز۔
القَطْرَانُ والقَطْرَانُ: کوتاہی کی مانند ایک چیز جو بعض درختوں سے بنایا جاتا ہے۔

القَطَارُ والقَطُونُ والمَقْطَارُ: بہت برسنے والا بادل۔ القَطَارُ: زہر جو کثرت کی وجہ سے نکلے۔

القَطَارَةُ: قطرہ۔ تھوڑا پانی۔
القَطَارُ: مِنَ الْإِبِلِ: اُونٹوں کی قطار ج قَطْرٌ وَقَطْرَات. نثرین۔

القَطَارَةُ: اُونٹوں کو ایک قطار میں ایک کے پیچھے ایک باندھنا۔ کہا جاتا ہے "فَرَّثَ بِهِ قَطَارَةً جَمَالٍ" اس کے اوپر اُونٹوں کی قطار گزری۔

الْقَطَارِي وَالْقَطَارِيَّة سائپ۔

الْقَاطِر: قَاتِكُنْے والا گوند۔ دم الاخوين۔

الْقَاظِرَةُ: قَاظِر كَامُوْت۔ اَنْجَن۔

الْمِقْطَرُ وَالْمِقْطَرَةُ: دھونی دینے کی آگیشی

بِقَطَاطِر۔ المِقْطَرَةُ: قید یوں کے پیر میں

ڈالنے کی کڑی۔

المُقَاظِرَةُ: غلے وغیرہ کو وزن سے لینا اور

جب تھوڑا سا باقی رہ جائے تو بقیہ کو اسی

حساب سے بلا وزن اٹکل سے لینا اور کہا

جاتا ہے "اَلْمُقَاظِرَةُ" یعنی آمدورفت

کے لئے کرایہ کیا۔

الْمَقْطُوْرُ: مِغ۔ قِطْرَان مَلا ہوا۔ اَرْضُ

مَقْطُوْرَةٌ: بارش شدہ زمین۔

قَطْرَب: جلدی کرنا.....: پچھاڑنا۔

تَقَطَّرَب: سر کو حرکت دینا۔

المَقْطُوْبُ: چور۔ چوہا۔ بال گرا ہوا بھڑیا۔

بھوت۔ چھوٹے جن۔ ایک کپڑا جو ہر وقت

حرکت کرتا رہتا ہے۔ جابل۔ بزدل۔

سغیر۔ پچھاڑا ہوا۔ مالی خویا کی ایک قسم۔

چھوٹے کتے۔ ایک خاردار پودہ ہے کہ

گزرنے والے سے اُلجھتا ہے۔

قَطْرِنَ البَعِيْرُ: اونٹ پر قِطْرَان ملنا۔

قَطَعَ (ف) قَطَعًا وَمَقْطَعًا وَتَقَطَّعًا

الشَّيْءُ: کاٹنا۔ جدا کرنا.....: عَنِ حَقِيْقِهِ: مِغ

کر دینا۔ قَطَعَ الصَّلُوَّةَ: باطل کرنا.....: فِي

الْقَوْلِ: یقین کرنا.....: الطَّرِيْقَ عَلٰی

السَّالِكِيْنَ: چلنے والوں کو راستے سے روکنا

اور خوفناک بنانا۔

قَطَعَ (ف) قَطَعًا وَقَطُوْعًا النَّهْرُ: نہر عبور

کرنا.....: بِالقَطِيْعِ او السَّوْطِ: پھٹی یا

کوڑے سے مارنا.....: بِالحُجْبَةِ: خاموش

کر دینا۔ لا جواب کر دینا.....: لِسَانَهُ:

احسان کر کے زبان بند کرنا۔

قَطَعَ (ف) قَطَعًا وَقَطِيْعَةً رَحْمَةً: رشتہ

داروں سے جدائی اختیار کرنا.....: (قَطِيْعَةً)

الصَّدِيْقِ: دوست کو چھوڑ دینا۔

قَطَعَ (ف) قَطَعًا الحَوْضُ: حوض کو

آدھے تک بھر کر پانی روک دینا.....: فَلَانٌ

السَّخْبِلُ او بِالْحَجْلِ: اپنے آپ رستی سے گلا

گھوٹنا.....: حَقْنِقُ ذَاتِيْهِ: بیچنا.....: لَهُ قِطْعَةٌ مِّنْ

السَّنَالِ: مال کو دینے کے لئے اس کا ایک

حصہ جدا کرنا.....: قَطِيْعَةٌ عَلٰی

عَبْدِيْهِ: مالک کا اپنے غلام پر ٹیکس مقرر کرنا۔

کہا جاتا ہے "قَطَعْنِي الثَّوْبُ" کپڑا میرے

قد کے لئے کافی ہے۔

قَطَعَ (ف) قَطُوْعًا وَقِطَاعًا وَقِطَاعًا. مَاءُ

البَسْرِ: کتوں میں کا پانی ختم ہونا یا کم ہونا۔

قَطَعَتِ الطَّيْرُ: پرندوں کا ٹھنڈے ممالک

سے گرم ممالک کی طرف جانا۔ صفت

قَوَاعِبِ.

قَطَعَ (ك) قِطَاعَةً: کلام پر قاتا رنہ ہونا۔

.....: لِسَانَهُ: زبان کی تیزی کا جاتا رہنا۔

قَطَعَتْ (س) قِطْعًا وَقِطْعًا وَقِطْعَةً

وَقِطَاعًا يَذُو: مرض کی وجہ سے یا کاٹنے سے

جدا ہونا۔

قَطَعَ النَّفْسُ: سانس کٹ جانا.....: الزَّجْلُ:

عاجز ہونا یا ناامید ہونا.....: بِه: آرزو پوری

ہونے سے پہلے روکا جانا۔ صفت مَقْطُوْعٍ

بہ۔

قَطَعَ الشَّيْءُ: کٹے کٹے کرنا.....: الشَّعْرُ:

شعری اَقْطَع کرنا.....: الخَمْرُ بِالمَاءِ: شراب

میں پانی ملانا.....: الفَرَسُ الخَيْلُ: گھوڑے کا

سبت کرنا.....: اللُّهُ عَلَيْهِ العَذَابُ: گونا

گول عذاب دینا.....: القَسْرُ مِنَ الجَزْرِ:

نشاط کی وجہ سے قسم قسم کی چال چلنا اور کہا

جاتا ہے "قَطَعْنِي الثَّوْبُ" کپڑا میرے قد

کے لئے کافی ہے و "هَذَا الثَّوْبُ يَقْطَعُكَ

قَمِيْصًا" یہ کپڑا تمہارے کرتے کے لئے

کافی ہے۔ کہا جاتا ہے "قَطَعَ فِي بَطْنِيْهِ" اس

کے پیٹ میں مروڑ ہوا۔

قَاطِعَةٌ مَّقَاطِعَةٌ: قِطْع تعلق کرنا۔ قَاطِعُ

الْاَجْرِ عَلٰی كَذَا وَكَذَا مِنَ الْاَجْرِ

وَالْعَمَلِ: اُجْرَتِ پر کام طے کرنا.....: فَلَانٌ

فَلَانًا بِسَيْفِيْهِمَا: ایک دوسرے کو تلوار دکھلانا

کہ کس کی تلوار عمدہ ہے وقَطَّعُوا الخُوْمَهُم

بِالسَّيْفِ: ایک دوسرے کے گوشت کو کاٹنا۔

اَقْطَعَ الزَّجْلُ: لا جواب ہونا.....: عَنِ اَمْلِيْهِ:

اپنے اہل سے جدا ہونا.....: مَاءَ البَسْرِ:

کتوں میں کا پانی ختم ہونا.....

فَلَانًا: نہر عبور کرنا.....: هُ السَّخْبِلُ: کٹری

کاٹنے کی اجازت دینا.....: هُ بِالحُجْبَةِ:

دلیل سے خاموش کر دینا.....: الاَمِيْرُ المَجْنَدُ:

البَلْدُ: جاگیر دینا۔ اَقْطَعَكَ الشَّيْءُ: مُنْقَطِعٌ

ہونا۔ اَقْطَعَتِ السَّمَاءُ بِمَوْضِعِ كَذَا:

بارش رُک جانا۔ اَقْطَعَ القَوْمُ: قوم سے

بارش کا مُنْقَطِعٌ ہونا.....: الدَّجَاجَةُ: مرغی کا

انڈے دینے سے رکننا۔ کُزُک ہونا اور کہا

جاتا ہے "اَقْطَعْنِي الثَّوْبُ" کپڑا میرے

قائم کے لئے کافی ہے۔

تَقَطَّعَ: کٹنا۔ کٹے کٹے ہونا۔ تَقَطَّعَ

الظُّلُ: سمنٹا۔ کم ہونا۔ تَقَطَّعُوا اَمْرَهُم بَيْنَهُم

: اپنے درمیان معاملہ میں تفریق کر لینا۔ کہا

جاتا ہے تَقَطَّعْتُ عَلٰی هَذَا الخَوَادِ اغْنَاؤِي

الخَيْلِ: یعنی اس گھوڑے سے گھوڑوں کی

گردنیں نہیں ملیں۔

اَنْقَطَعَ: کٹنا۔ وقت ختم ہونا۔ کہا جاتا ہے

"انْقَطَعَ الخَوَارِجُ وَالبُرْدُ" گرمی یا سردی ختم

ہوگئی۔ انْقَطَعَ السَّيْفُ: تلوار کا ٹوٹنا.....: مَاءُ

البَسْرِ: کتوں میں کا پانی ختم ہونا.....: البَغِيْثُ:

بارش کا رُکنا.....: السَّكَاْمُ: کلام کا رُک جانا

.....: النَّهْرُ: نہر کا خشک ہونا یا روک دیا جانا

.....: البَسْنُ: دودھ میں پانی کا حصہ خشک ہو

جانا.....: لِسَانَهُ: زبان کی تیزی کا جاتا رہنا

.....: اِلٰی فَلَانٍ: خاص تعلق رکھنا۔

اَلْقِطْعُ بِالمَسَافِرِ: سواری کے جانور کا ہلاک

ہونا یا زور راہ کا ختم ہونا۔ صفت مُنْقَطِعٌ بہ۔

تَقَاطَعًا: ایک دوسرے سے قِطْع تعلق کرنا۔

تَقَاطَعِ الشَّيْءِ: جدا جدا ہونا۔

اِقْطَعَ مَا لِفُلَانٍ: اپنے لئے لینا.....: مِّنْ

السَّنَالِ قِطْعَةً: کچھ لینا.....: مَا فِي الْاِنَاءِ:

برتن کا سب کچھ پی لینا۔

اسْقَطَعَهُ بَلَدًا اَوْ قَوْمًا: جاگیر دینے کو کہنا۔
کپڑا قطع کرنے کو کہنا۔

اِقْطُو طَعْتِ الطَّيْرُ: پرندوں کا سردما لک
سے گرم ممالک کی طرف جانا۔

الْقَطْعُ: بھس۔ کہا جاتا ہے "الْاَمْرُ وَاقِعٌ
قَطْعًا" یعنی امر یقیناً واقع ہے۔ و "اَنْبَسَى
اَقْطَعُ بِذَلِكَ قَطْعًا" میں اس کا یقین
رکھتا ہوں۔

الْقَطْعُ: درخت کا کاٹنا ہو گا۔ نیزے کا
چوڑا اور چھوٹا پھل جِ اَقْطَاعِ اَقْطَعُ
وَقِطَاعِ: سوار کے نیچے بچھانے کا کپڑا۔
ایک قسم کا شمش کپڑا رات کا ایک ٹکڑا۔ جِ
قَطْوَعُ وَاَقْطَاعُ: کہا جاتا ہے "ثَوْبٌ قَطْعٌ
اَوْ اَقْطَاعٌ" کتا ہوا کپڑا۔

الْقَطْعُ: پیٹ کا درد اور مروڑ۔ سانس پھولنا
(..... و السَّقَطَةُ) گرمی کی وجہ سے کونٹوں
کے پانی کا خشک ہونا۔

القَطْعُ فِي الْقُبُوسِ: گھوڑے کی بعض رگوں کا
کٹنا۔

القَطْعُ وَالْقَطْعَةُ: رشتہ داروں سے قطع تعلق
کرنے والا۔

القَطْعُ: جس کی آواز بند ہو جائے۔

القَطْعَةُ: چیز کا حصہ۔ جِ قَطْعُ. و القَطْعَةُ مِنَ
الشَّعْرِ: دس یا سات یا اس سے کم اشعار کی
نظم۔

القَطْعَةُ: زمین کا ٹکڑا۔ جو کسی کو دینے کے
لئے جدا کیا جائے۔ کاٹنا ہو گا۔ سفید آٹا۔

سفید آنے کی بھوسی۔ کتاب کی فصل۔ جِ
قَطْعُ وَقَطْعَاتُ (..... و القَطْعَةُ) کاٹنے کی

جگہ۔ کئے ہوئے ہاتھ کا بقیہ۔ جِ قَطْعُ
وَقَطْعَاتُ. قَطْعَاتُ الشَّجَرِ وَقَطْعَاتُهَا
وَقَطْعَاتُهَا: درخت کی گہرے کے اطراف کہ
جن کے کاٹ دینے کے بعد پھر دوبارہ
نکلے۔

القَطْعُ: کاٹنے کا آلہ۔ جِ قِطْعَةٌ (.....)
وَالْقَطِيعُ: رات کی پہلی تہائی۔ الْقَطْعُ
وَالْقِطْعُ: دراعہ۔

القَطَاعَةُ: کاٹنے میں جو گرے۔ کاٹنا ہوا
ٹکڑا۔ لقمہ جس میں سے آدھا کھا لیا جائے
اور آدھا رہنے دیا جائے۔

القِطَاعَةُ: فی اصطلاح عامیة النصارى:
گوشت اور بعض کھانے کی چیزوں سے بعض
مخصوص دنوں میں پرہیز۔

السَّقِطِيعُ: بکریوں اور چوپایوں کا گلہ۔ جِ
قَطْعَانُ وَقِطَاعُ وَاَقْطَاعُ جِ اَقْطَاعِجٌ.....:

چھڑ جس سے تیر بنایا جائے۔ درخت یا ٹہنی
سے جو کاٹا جائے۔ جِ قَطْعَانُ وَقِطَاعُ
وَاَقْطَاعَةُ وَاَقْطَاعُ وَاَقْطَاعُ وَقِطْعُ
وَقِطْعَاتُ.....: ظہیر۔ شبیر۔ جیسے "هُوَ

قَطِيعُهُ" وہ خلقت اور قد میں اس کے مشابہ
ہے "قَطْعَاءُ وَاَقْطَاعُ" کہا جاتا ہے "هُوَ

قَطِيعُ الْقِيَامِ" وہ بوجہ ضعف یا فریبی کے اٹھنے
سے عاجز ہے "وَامْرَأَةٌ قَطِيعُ الْكَلَامِ" کم سخن

عورت۔ "زَجَلٌ قَطِيعٌ" سانس پھولا ہوا
مرد۔ مَوْنٌ۔ قَطِيعٌ. اِمْرَأَةٌ قَطِيعٌ
وَقَطْوَعٌ: کھڑے ہونے میں سست عورت

کہا جاتا ہے "اِنْفِئِ الْقَطِيعَاءُ بِقِطْعِ تَعْلَقَاتِ
سے بچو۔

السَّقِطِيعَةُ: جدائی۔ وظیفہ۔ قطع تعلقات۔
نکس۔ جاگیر۔ جِ قَطِيعٌ.

الْاِقْطَاعَةُ: جاگیر۔ جِ اِقْطَاعَاتُ.
السَّقِطِيعُ: بھس۔ پیٹ میں مروڑ۔ تَقَطِيعُ
الزَّجَلِ: قد و قامت۔ جِ تَقَطِيعُ.

الْاِقْطُوْعَةُ: قطع تعلقات کی علامت جو ایک
دوسرے کو بھیجے۔

السَّقِطَاعُ: فاجر۔ روکنے والا۔ کاٹنے کا آلہ۔
نمونہ جس پر کپڑا وغیرہ قطع کیا جائے۔ کہا

جاتا ہے "قَطْعُ الْاَدِيمِ عَلَي الْقَاطِعِ. لَبَنٌ
قَاطِعٌ: کھنا دودھ بڑھان قاطع: ایسی دلیل جو

سارے شکوک و شبہات کا ازالہ کرنے والی
ہو۔ سَيْفٌ قَاطِعٌ: شمشیر براں۔ قَاطِعٌ
الطَّرِيقِ: چور ڈاکو ن قَطْعُ وَقِطَاعُ.

القَاطِعَةُ. قَاطِعٌ: کامو نٹ جِ قَواطِعِ.
طَيْسَرٌ قَواطِعٌ: جاڑے اور گرمی میں ایک جگہ

نہ رہنے والے پرندے۔
القَطْعُ: اسم مبالغہ۔ القَطْعُ فی اصطلاح
البنائین: پتھر کاٹنے والا۔

القَطْوَعُ: بہت کاٹنے والا..... مِنْ النُّوقِ:
اُدْمِی جس کا دودھ بہت جلدی سے ختم ہو
جائے۔

الْاَقْطَعُ: کئے ہوئے ہاتھ والا۔ بہرا۔
مَوْنٌ قَطْعَاءُ جِ قَطْعُ وَقِطْعَانُ. رَحْمٌ
قَطْعَاءُ: قطع تعلقات۔

القَطْعُ: کاٹنے یا کٹنے کی جگہ جِ مَقَاطِعُ کہا
جاتا ہے "سَرَابٌ لَدَيْدٌ مَّقْطَعٌ" پینے کی
چیز جس کا آخرو شگوارا ہو "مَقَاطِعُ الْاَنْهَارِ"
نہروں میں جہاں گزر سکیں۔ "مَقَاطِعُ
الْکَلَامِ" وقف کرنے کے مواقع مَقْطَعُ
الْحَقِ: جس سے باطل منقطع ہو جائے
السَّقِطِعُ: حرکت کرنے والا حرف۔ یادو
حرف جس میں دوسرا ساکن ہو۔ مَقْطَعُ
الْحَرْفِ: حرف کا مخرج۔

المُقْطِعُ: جس کی حجت منقطع ہو گئی ہو۔ دلیل
سے عاجز و خاموش۔

المُقْطِعُ: اجنبی۔ مسافر۔ عورتوں کی خواہش
نہ رکھنے والا۔ وہ شخص جس کا نام دیوان
و طائف میں نہ ہو یا وہ شخص جس کے
ہمسروں کو طے اور وہ محروم رہے۔ مَقْطَعُ
النَّهْرِ: دریا کی پایاب جگہ۔

المُقْطِعُ: کاٹنے کا آلہ۔ نمونہ جس پر چھرا
وغیرہ کاٹا جائے۔ سَيْفٌ مَقْطَعٌ: شمشیر
براں۔

المَقْطَاعُ: بھائی چارہ پر قائم نہ رہنے والا۔
بِشْرٌ مَقْطَاعٌ: کنواں جس کا پانی جلدی اتر
جائے مَقْطَاعُ الْکَلَامِ: وہ شخص جو لوگوں کو
لا جواب کر دینے کا عادی ہے۔

المَقْطَعَةُ: کاٹنے کی جگہ۔ کاٹنے کا سبب۔ کہا
جاتا ہے "الْهَجْرُ مَقْطَعَةٌ لِلْوَدِّ" یعنی جدائی
دوستی کے قطع کا سبب ہے۔

المَقْطَعَةُ وَالْمَقْطَعَاتُ: چھوٹے کپڑے اور
یہ اسم جس ہے اس کے لئے مفرد نہیں۔ بلکہ

یہ اسم جس ہے اس کے لئے مفرد نہیں۔ بلکہ

یہ اسم جس ہے اس کے لئے مفرد نہیں۔ بلکہ

یہ اسم جس ہے اس کے لئے مفرد نہیں۔ بلکہ

یہ اسم جس ہے اس کے لئے مفرد نہیں۔ بلکہ

یہ اسم جس ہے اس کے لئے مفرد نہیں۔ بلکہ

یہ اسم جس ہے اس کے لئے مفرد نہیں۔ بلکہ

یہ اسم جس ہے اس کے لئے مفرد نہیں۔ بلکہ

یہ اسم جس ہے اس کے لئے مفرد نہیں۔ بلکہ

یہ اسم جس ہے اس کے لئے مفرد نہیں۔ بلکہ

یہ اسم جس ہے اس کے لئے مفرد نہیں۔ بلکہ

یہ اسم جس ہے اس کے لئے مفرد نہیں۔ بلکہ

یہ اسم جس ہے اس کے لئے مفرد نہیں۔ بلکہ

سارے چھوٹے چھوٹے پتروں کو مُقَطَّعات
وَمُقَطَّعةٌ کہتے ہیں وَمُقَطَّعاتُ الشَّيْءِ کسی
چیز کے وہ طریقے جن کی طرف اس کی تحلیل
و ترکیب ہو۔ الْمُقَطَّعاتُ مِنَ الشَّجَرِ:
چھوٹے اشعار یا رجز۔ مُقَطَّعُ الْأَسْحَارِ
وَمُقَطَّعةُ الْأَسْحَارِ وَمُقَطَّعةُ الْقُلُوبِ:
خرگوش۔

الْمُنْقَطِعُ مِنَ الْوَادِي وَنَحْوَهُ: وادی کا
آخری سرا۔

الْمُنْقَطِعُ: فا۔ کہا جاتا ہے "مُنْقَطِعُ الْقَرِينِ"
وہ معدوم النظر ہے "هُوَ مُنْقَطِعُ الْعَقَالِ فِي
الشَّرِّ" یعنی کوئی اس کا روکنے والا نہیں۔

الْمُنْقَطِعُ: فا۔ پستہ قد۔ غُرَّةٌ مُنْقَطِعَةٌ: پیشانی
کی سپیدی تھنوں سے آگے بڑھ کر آکھ تک
پہنچنے والی۔

الْمُنْقَطِعُونَ: عیسائیوں کے نزدیک وہ لوگ
جو فوت ہو گئے اور ان کے لئے نماز جنازہ
پڑھنے والا اور گناہوں کا کفارہ دینے والا نہ
ہو۔

قَطْفُهُ (ض) قَطْفًا وَقَطْفَهُ: خراش کرنا۔
چھیلنا۔

قَطْفٌ وَقَطْفٌ وَقَطْفٌ: پھل چننا۔
جمع کرنا..... الشَّيْءُ: اُچک لینا۔ قَطْفٌ
مَعْسَلَةٌ: شہد نکالنا۔ اِقْطَفَ الْكَلَامَ: کلام کا
خلاصہ کرنا۔

قَطْفٌ (ن ض) قِطَافًا وَقِطُوفًا الْقَرَسُ
وغيره: گھوڑے کا آہستہ چلنا۔

اَقْطَفَ الْكَبْرُ: انگور توڑنے کے قابل ہونا
..... الرَّجُلُ: سُت رفقار جانور کا مالک
ہونا۔

القَطْفُ: مصر۔ خراش ج قَطُوفٌ.

القَطْفُ: اثر۔ نشان۔ ج قَطُوفٌ: ایک
سبزی ایک پہاڑی درخت جس کی لکڑی
مضبوط ہوتی ہے۔ واحد قَطْفَةٌ.

القَطْفُ: توڑا ہوا پھل۔ انگوروں کا خوشہ ج
قِطَافٌ وَقِطُوفٌ.

القِطْفَةُ: ایک خاردار سبزی جس کا اندرونی

حصہ سرخ اور پتے اس کے خاکستری ہوتے
ہیں۔

القِطَافُ وَالْقِطَافُ: میوہ توڑنے کا موسم۔
قِطَافٌ: بروزن قِطَافٌ: بمعنی لوٹری۔

الْقِطَافَةُ: میوہ توڑنے کے وقت جو گر
پڑے۔

القِطُوفُ: مِنَ السِّدَّابِ: سُت
رقار۔ جانور ج قِطْفٌ.

القِطِيفُ وَالْمَقِطُوفُ: توڑا ہوا۔

القِطِيفَةُ: چھوڑا درج قِطْفٌ وَقِطَافٌ
القِطَافُ: ایک قسم کا کھانا جو آٹے سے تیار
کیا جاتا ہے اور وہ چونکہ چھوڑ کے مشابہ ہوتا
ہے اس وجہ سے اس کو قِطَافٌ کہتے ہیں۔

القِطِيفَةُ: ایک قسم کی گھاس ہے جس کو سالف
العزوس بھی کہتے ہیں۔

الْمَقِطُوفُ: ٹوکری جس میں پھل چنا جائے
ج مقاطيف.

المَقِطُوفُ: پھل توڑنے کا آلہ۔ خوشہ کی جز
ج مقاطيف.

الْمَقِطُوفَةُ: پستہ قد۔
قِطْفًا قِطْفَةً السَّحَابُ: اولے برساتا۔

بَارِكٌ بَارِشٌ بَرَسًا: قِطْفٌ قِطْفٌ السَّحَابُ:
چکور کا آواز کرنا۔

تَقَطَّقَ الرَّجُلُ فِي الْأَمْرِ: مرد کا معاملات
میں خود سر ہونا..... فِي الْبِلَادِ: سفر کرنا
..... الدَّلْوُ إِلَى الْبَيْتِ: ڈول کا ٹوکوں میں
اُترنا۔

الرَّجُلُ: چھوٹے قدموں سے تیز چلنا۔
القِطْفُ: اول یا چھوٹے قطرہ کی بارش۔

القِطْفُاطُ: تیز رفقار۔ کہا جاتا ہے "جاءت
الْحَيْلُ قِطْفَانِيًّا" یعنی گھوڑے گروہ گروہ
آئے۔

قَطْلٌ (ن ض) قِطْلًا وَقِطْلٌ الشَّيْءُ: کاٹنا
قِطْلٌ غَنْقُهُ: گردن پر مارنا۔ وَقِطْلَةٌ: بچھاڑنا
یا ایک پہلو پر گرا دینا۔

تَقَطَّلَ الْجَدْعُ: تنہا کا جز سے کٹنا۔

القِطْلُ وَالْقِطِيلُ مِنَ الشَّجَرِ وَنَحْوَهُ: کٹنا

ہوا۔ کہا جاتا ہے "نَحْلَةٌ قِطِيلٌ وَجِدْعٌ
قِطْلٌ وَقِطِيلٌ" یعنی جز سے کٹا ہوا۔

القِطِيلَةُ: جھاڑن جس سے پانی وغیرہ صاف
کیا جائے۔

المُقِطَّلُ: منع۔ پکا ہوا۔
المُقِطَّلُ: کاٹنے کا لوبان ج مقاطيل.

القِطْلَبُ: ایک درخت ہے جس میں انگور
کے مانند بزدانے آتے ہیں اور جب پک
جاتے ہیں تو سرخ ہو جاتے ہیں اور پیٹھے
ہوتے ہیں واحد قِطْلَبَةٌ.

قِطْمَةُ (ض) قِطْمًا: دانت سے کاٹ کر
چکھنا۔ قِطْمُ الْعُودِ: دانت سے کاٹ کر سختی
زنی معلوم کرنا۔

..... الشَّيْءُ: کاٹنا..... اللَّحْمُ وَغَيْرُهُ:
گوشت وغیرہ کا خواہش مند ہونا.....

الصَّفْرُ إِلَى اللَّحْمِ: شکرہ کا گوشت کا
خواہش مند ہونا۔

قِطْمٌ (س) قِطْمًا: گوشت وغیرہ کا خواہش
مند ہونا۔ صفت قِطْمٌ.

قِطْمُ الشَّارِبِ: پینے والے کا چکھنا اور منہ
بانا۔

القِطَامُ: شکرہ۔ گوشت کا خواہش مند شکرہ۔
القِطَامِيُّ وَالْقِطَامِيُّ: تیز نظر کا شکرہ جو شکر
کی طرف نظر اٹھائے ہوئے ہو۔ القِطَامِيُّ
وَالْقِطَامِيُّ: تیز شراب۔ رَجُلٌ قِطَامِيُّ:
معاملات میں خود سر مرد۔

القِطَامَةُ: جو منہ سے کاٹا جائے پھر پھینک دیا
جائے۔
القِطْمُ: غضبناک۔

القِطِيمَةُ: دودھ جس کا مزہ خنجر ہو گیا ہو۔
تَكَلَّمَ: تَلَّهَ كَالِإِخْلَافِ: کہا جاتا ہے "شئٌ مُرٌّ
الْمَقْطَمُ: مزے کے لحاظ سے کھٹ ٹھنی چیز۔

المَقْطَمُ: چنگل ج مقاطيل.
المَقْطَمُ: مصر کے ایک پہاڑ کا نام۔
القِطْمِيرُ وَالْقِطْمَارُ: سمجور کی خشکی کے
شکاف کا باریک چھلکا یا سمجور کی خشکی کے
اوپر باریک چھلکا۔ کہا جاتا ہے "مَا أَصْبَتْ

<p>قَعَت (ن) قَعْنَا وَقَعْنَا لَهُ مِنَ الشَّيْءِ: لپ بھردینا (..... وَقَعْتُ) الشَّيْءِ: جڑ سے اکھیرنا۔</p>	<p>الْقَيْطِينُ: بیل والی نباتات جیسے کھیرا، ککڑی وغیرہ۔ کدو کے لئے اکثر مستعمل ہے واحد يَقْتِينَةٌ۔</p>	<p>مِنْهُ قَيْطِيمٌ“ یعنی میں نے اس سے کچھ نہیں پایا۔ الْقَيْطِيمُ: اصحاب کبف کے کتے کا نام اور امام ابن کثیر مفسر رحمۃ اللہ کے نزدیک قَطْمُور ہے۔</p>
<p>أَقَعْتُ فِيهِ مَالِي: فضول خرچی کرنا..... لَهُ الْعَيْطِيَّةُ: بہت دینا۔</p>	<p>الْقَيْطُونُ: بڑے کرے میں چھوٹا کرہ۔ قَطَا يَقْطُونَ قَطْوًا: بوجھل چال سے چلنا۔</p>	<p>قَطْن (ن) قَطُونًا فِي الْمَكَانِ وَبِهِ: اقامت کرنا۔ وطن بنانا۔ الرَّجُلُ: خدمت کرنا۔</p>
<p>أَقَعْتُ الْحَافِرُ: کھودنے والے لاکھنوں سے بہت مٹی نکالنا..... لَهُ الْعَيْطِيَّةُ: بہت دینا۔</p>	<p>الْقَطَا: تظا کا آواز کرنا..... الْمَائِي: آہستہ چلنا یا نشاط سے چلنا۔</p>	<p>قَطْن (س) قَطْنَا. ظَهْرُهُ: پیٹھ کا جھکنا۔ صفت أَقْطَنُ.</p>
<p>الْقَيْعُتُ: آسان۔ موسلا دھار بارش۔ بڑا سیلاب۔</p>	<p>تَقَطَّى: دیر کرنا۔ الفروس: گھوڑے کے پٹھے پر سوار ہونا..... لِأَصْحَابِهِ: ساتھیوں کو فریب دینا..... بِوَجْهِهِ عَنهُ: رُود گردانی کرنا۔</p>	<p>الْقَطْنُ بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ قَطْنُ الْكُرْمِ: انگور کی بیل کا ٹکڑو دار ہونا۔</p>
<p>قَعَدَ (ن) قَعُوذًا وَمَقْعَدًا: کھڑے سے بیٹھنا (..... قَعُوذًا) کھڑا ہونا۔ قَعَدَ بِهِ: بٹھانا۔</p>	<p>الْقَطْوُطَى: آہستہ چلنا یا نشاط سے چلنا۔ القَطَاط: کبوتر کے برابر ایک پرندہ۔ ج قَطَا وَقَطْوَاتٍ وَقَطِيَّاتٍ. القَطَاةُ مِنَ الذَّائِبَةِ: چوڑ۔ ردیف کے بیٹھنے کی جگہ۔ دونوں</p>	<p>الْقَطْنُ بِحَسِّ: اقامت کی جگہ۔ پرندہ کی دُم کی جڑ۔ دونوں سریوں کے درمیان۔ پشت انسانی کا پست اور ہموار حصہ۔ ج أَقْطَانُ.</p>
<p>قَعَدَ عَنْ حَاجَتِهِ: پیچھے رہنا..... فَلَانَ بِقَرْبِهِ: ہمسر ہونا اور کہا جاتا ہے "قَعَدَ بِي عَنْكَ شُغْلٌ" مجھ کو تم سے کام کا ج نے روک دیا..... لِلسَّحَرِ: جنگ آزما۔ لوگوں کو مہیا کرنا۔ قَعَدَتِ النَّخْلَةُ: دوسرے سال پھل دینا..... الفَيْسِلَةُ: پودے کا تہ والا ہونا۔</p>	<p>سریوں کے درمیان کہا جاتا ہے "ذَهَبُوا فِي الْأَرْضِ يَقْطَا" زمین میں متفرق ہو گئے۔ القَطْوَانُ وَالْقَطْوَانُ وَالْقَطْوُطَى: آہستہ چلنے والا۔ القَطْوُطَى: لمبی ناگوں والا۔ القَطِيَّةُ: ناریل کی چھال کی رسی۔</p>	<p>الْقَطْنُ وَالْقَطْنُ: رُوئی۔ ایک کڑے کو قَطْنَةٌ: کہتے ہیں اور قَطْنُ: اسم جنس ہے اور کبھی اس کی جمع أَقْطَانُ آتی ہے۔</p>
<p>الْمَرْأَةُ: عورت کے شوہر کا لاپتہ ہونا اور صار اور طفق کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے "قَعَدَ يَشْتَبِيهِ" وہ مجھے گالی دینے لگا۔</p>	<p>قَعَدَ (ن) قَعَا: بے باکی سے گفتگو کرنا۔</p>	<p>القَطْنَةُ وَالْقَطِيَّةُ: اوجھ کا پرت دار حصہ۔ القَطِيَّةُ: سریوں کے درمیان کا گوشت۔ القَطَانُ: ہودج کی ککڑی۔ ج قَطْنُ.</p>
<p>قَعَدَتْ النِّخْلَةُ: دوسرے سال پھل دینا..... القَرْأَةُ: عورت کے شوہر کا لاپتہ ہونا اور صار اور طفق کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے "قَعَدَ يَشْتَبِيهِ" وہ مجھے گالی دینے لگا۔</p>	<p>أَقَعَ الْقَوْمُ: کھودنا اور کھاری پانی پر بھیر کرنا۔</p>	<p>القَطَانَةُ: ہانڈی۔ دیگ۔ القَطِيَّةُ وَالْقَطِيَّةُ: دانے جو پکائے جائیں۔ جیسے مسور چنا وغیرہ۔ ج قَطَايِي: رُوئی کے بنے ہوئے کپڑے۔</p>
<p>قَعَدَتْ: خدمت کرنا۔ کہا جاتا ہے "قَعَدَ أَبَاهُ" اس نے اپنے باپ کو بٹھا دیا۔ یعنی اس کی کمائی اس کے باپ کے لئے بھی کافی ہے۔</p>	<p>قَعَبَ الْحَافِرُ: سم کا گنبد دار ہونا..... فَلَانَ فِي الْكَلَامِ: حلق کے انتہائی حصہ سے بولنا۔</p>	<p>القَطَانُ: ج قَطَانُ وَقَاطِنَةٌ وَقَطِينُ القَطِينِ بِمَعْنَى قَاطِنٍ جَمْعُ قَاطِنٍ: گھر کے لوگ۔ خادم۔ نوکر چاکر (واحد و جمع) يَاجُ قَطْنُ کہا جاتا ہے "هُوَ لَآءُ قَطِينٍ فَلَانَ" یعنی یہ لوگ فلاں کے نوکر چاکر ہیں۔ "قَطِينُ اللّٰهِ" اللہ کے حرم کے رہنے والے لوگ۔</p>
<p>قَعَدَهُ عَن كَذَا: بروک دینا۔</p>	<p>القَطَاعِبُ: لمبلانے والا بھیریا۔ القَعْبُ: بڑا پیالہ جِ القَعْبُ وَقَعَابٌ وَقِعْبَةٌ قَعْبُ الْكَلَامِ: کلام کی گہرائی۔</p>	<p>القَطِيَّةُ: گھر کے رہنے والے۔ القَطَانُ: رُوئی کا بیجے والا۔ قَاطِنَاتٌ مَحْتَةٌ وَقَطْنُهَا: مکہ کے کبوتر۔</p>
<p>أَقَعَدَ قَعَادًا: کی بیار والا ہونا (قَعَادًا: ایک بیاری ہے جس میں آدمی چلنے پھرنے سے محذور رہتا ہے)</p>	<p>القَعْبَةُ: پہاڑ کا گڑھا۔ القَعْبِيُّ: حد کثیر۔ القَعْبَلُ: عمود۔ اگر۔</p>	<p>القَطِيَّةُ: گھر کے رہنے والے۔ القَطَانُ: رُوئی کا بیجے والا۔ قَاطِنَاتٌ مَحْتَةٌ وَقَطْنُهَا: مکہ کے کبوتر۔</p>
<p>تَقَعَّدَ: توقف کرنا.....: نال مول کرنا۔ کام</p>	<p>القَعْبَلُ وَالْقَعْبَلُ: سانپ کی چھتری کی ایک قسم۔ القَعْبَلُ: دو دو ہونے کا پیالہ۔ مرد ذرشت خو۔</p>	<p>القَطِيَّةُ: ریشم وغیرہ سے جو رسی کی مانند بن جائے۔ القَطِيَّةُ: زمین جس میں روئی بوئی جائے۔</p>

کا انتظام کرنا..... تَقَعَّدَ عَنِ الْأَمْرِ: طلب کرنے کو چھوڑنا۔

مُقَاعَدَةُ مُقَاعَدَةٍ: دوسرے کے ساتھ بیٹھنا۔ تَقَاعَدَ بِهٖ فَلَانٌ: حق ادا نہ کرنا۔

اِقْتَعَدَ الدَّابَّةَ: چوپایہ کو سواری بنانا۔ کہا جاتا ہے "مَا اِقْتَعَدَكَ عَنْهُ" کس چیز نے تم کو اس سے روکا۔

السَّقْعِد: وہ لوگ جو شریک جنگ نہ ہوں۔ فوجی لوگ جن کی تنخواہ مقرر نہ ہو۔ خوارج۔ السَّقْعِدَةُ قَعْد: کا اسم مرہ۔ انسان کے لئے سواری عالیچہ (.....) والسَّقْعِدَةُ اتنی جگہ جو بیٹھنے میں گھرے۔ السَّقْعِدَةُ: بیٹھنے کی ہیئت۔

بِسُرِّ قَعْدَةٍ: انسان کے بیٹھنے کی مقدار کا گڑھا۔ ذُو السَّقْعِدَةِ وَذُو السَّقْعِدَةِ: قمری مہینوں میں سے گیارہواں مہینہ۔

السَّقْعِدَةُ: بیٹھنے کی چیز۔ گدھا..... مَنِ الْاِبِلِ: چرواہے کے لئے ہر حاجت میں سواری کا اونٹ ج قَعْدَات.

السَّقْعِدَةُ: سواری۔ عالیچہ۔ السَّقْعِدَةُ: بہت بیٹھنے والا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ قَعْدَةٌ ضَجَعَةٌ" وہ بہت بیٹھنے والا لیٹنے والا ہے۔ یعنی بہت کاہل ہے۔

الْاِقْتَعَادُ وَالْقَعَادُ: ایک بیماری ہے جس کو یہ لاحق ہوتی ہے وہ چلتے پھرنے سے محذور ہوتا ہے۔

الْقَعَادُ: بیوی۔ الْقَاعِدُ: ج قَعُوْد: نفل سے بھرے ہوئے گون۔ عورت جس کے لڑکا اور شوہر کوئی نہ ہو۔

الْقَاعِیَّةُ: قَاعِد کا مؤنث۔ قَاعِیَّةُ: التَّيْمَالُ: وہ بلند چبوترہ وغیرہ جس پر مجسمہ نصب کیا جائے

وَالْقَاعِیَّةُ مِنَ السَّيْتِ: بنیاد..... مِنَ الْهَوْدَجِ: ہودہ کی ککڑی..... مِنَ الْبِلَادِ: بڑا شہر ج قواعد. والقَاعِیَّةُ فِي الْاِصْطِلَاحِ: اصل کلی جو سارے جزئیات پر منطبق ہو۔

السَّقْعِدِيُّ وَالْقَعْدِيَّةُ وَالْقَعْدِيَّةُ: بہت بیٹھنے

والا۔ السَّقْعِدِيُّ: عاجز۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ قَعْدِيٌّ ضَبَجِيٌّ" بہت بیٹھنے اور لیٹنے والا مرد۔

السَّقْعِدُ وَالْقَعُوْدَةُ مِنَ الْاِبِلِ: چرواہے کا ہر حاجت میں سواری کا اونٹ۔ السَّقْعِدُ: اونٹ کا بچہ۔ جوان اونٹ۔ ج اَقْعِدَةٌ وَقَعْدُو قَعْدَان وَقَعْدَان.

السَّقْعِيدُ (واحد جمع مذکر مؤنث) ہم نشین۔ تمباہان۔ ٹڈی کہ ابھی اس کے پراچھی طرح سے نہ نکلے ہوں۔ پرندہ یا ہرن جو تمہارے پیچھے سے آئے اور اس سے بدقالی لی جائے (اور یہ نطیح کے خلاف ہے) قَعِيدَةُ الْكَلْبِ اَنْسَر: دائیں بائیں کے محافظ۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ قَعِيدُ النَّسَبِ" فلاں قریب النسب ہے۔

السَّقْعِيدُ: قعود کی تغیر اور اسی سے مثل ہے "اتَّخَذُوهُ قَعِيدَ الْحَاجَاتِ" جب کہ کسی شخص سے ساری ضرورتوں میں کام لیں۔

الاقْعَدُ النَّسَبِ: مورث اعلیٰ سے قریب النسب۔

السَّقْعِيدُ: قعود کی تغیر اور اسی سے مثل ہے "اتَّخَذُوهُ قَعِيدَ الْحَاجَاتِ" جب کہ کسی شخص سے ساری ضرورتوں میں کام لیں۔

الاقْعَدُ النَّسَبِ: مورث اعلیٰ سے قریب النسب۔

السَّقْعِيدُ: قعود کی تغیر اور اسی سے مثل ہے "اتَّخَذُوهُ قَعِيدَ الْحَاجَاتِ" جب کہ کسی شخص سے ساری ضرورتوں میں کام لیں۔

الاقْعَدُ النَّسَبِ: مورث اعلیٰ سے قریب النسب۔

السَّقْعِيدُ: قعود کی تغیر اور اسی سے مثل ہے "اتَّخَذُوهُ قَعِيدَ الْحَاجَاتِ" جب کہ کسی شخص سے ساری ضرورتوں میں کام لیں۔

الاقْعَدُ النَّسَبِ: مورث اعلیٰ سے قریب النسب۔

السَّقْعِيدُ: قعود کی تغیر اور اسی سے مثل ہے "اتَّخَذُوهُ قَعِيدَ الْحَاجَاتِ" جب کہ کسی شخص سے ساری ضرورتوں میں کام لیں۔

الاقْعَدُ النَّسَبِ: مورث اعلیٰ سے قریب النسب۔

السَّقْعِيدُ: قعود کی تغیر اور اسی سے مثل ہے "اتَّخَذُوهُ قَعِيدَ الْحَاجَاتِ" جب کہ کسی شخص سے ساری ضرورتوں میں کام لیں۔

الاقْعَدُ النَّسَبِ: مورث اعلیٰ سے قریب النسب۔

السَّقْعِيدُ: قعود کی تغیر اور اسی سے مثل ہے "اتَّخَذُوهُ قَعِيدَ الْحَاجَاتِ" جب کہ کسی شخص سے ساری ضرورتوں میں کام لیں۔

الاقْعَدُ النَّسَبِ: مورث اعلیٰ سے قریب النسب۔

السَّقْعِيدُ: قعود کی تغیر اور اسی سے مثل ہے "اتَّخَذُوهُ قَعِيدَ الْحَاجَاتِ" جب کہ کسی شخص سے ساری ضرورتوں میں کام لیں۔

النَّسَبِ (ضد) السَّقْعِدُ: بزدل۔ کینہ۔ مکارم اخلاق سے باز رہنے والا۔ گنہگار۔ رَجُلٌ قَعْدُوْدَةٌ: بزدل۔

قَعْرَهُ (ف) قَعْرًا: پچھاڑنا۔ قَعْرُ الشَّجَرَةِ: درخت کو جڑ سے اکھیڑنا..... الْاِنَاءُ: برتن سے سب کچھ لی لینا..... الْبَسْرُ: کنوئیں کی گہرائی میں اُترنا۔ گہرا کرنا۔ قَعْرَتِ الشَّاةِ: بکری کا ناتمام بچہ گراتا۔

قَعْرُ (ك) قَعَارَةُ الْمَاءِ: پانی بہت گہرائی میں ہونا۔ قَعْرُ الْبَسْرِ: کنوئیں کا گہرا کرنا..... فَنِ كَلَابِيَه: حلق سے یوننا..... الرَّجُلُ: چٹنا..... الشَّيْ: گہرا بنانا۔ وَقَعْرَتِ الشَّاةِ: بکری کا ناتمام بچہ گراتا۔

أَقْعَرُ الْبَسْرُ: کنوئیں کا گہرا کرنا..... السَّنَجْمُ: ستارے کا برتن کے پیندے میں ظاہر ہونا۔ تَقَعَّرُ: گہرا ہونا۔ پچھاڑنا۔ مَغْلَبٌ: ہونا..... فَنِ كَلَابِيَه: حلق سے یوننا..... الشَّيْ: گہرا ہونا۔ اِنْقَعَرُ: اُکھڑنا۔ مرنا۔

السَّقْعَرُ: مص..... مَنِ كَحَلِ شَيْ: گہرائی۔ السَّقْعَرُ: بڑا پیالہ۔ پست زمین۔ محفل کامل۔ قَعْرُ الْفَمِ: منہ کا اندرونی حصہ ج قَعُوْر اور کہا گیا ہے "مَا فِي هَذَا الْقَعْرِ مِثْلُهُ" یعنی اس شہر میں اس جیسا کوئی نہیں۔ وَجَلَسَ فَلَانٌ فِي قَعْرِ بَيْتِيَه: کنایہ ہے ہمیشہ گھر میں رہنے سے۔

السَّقْعَرَةُ وَالْقَعْرَةُ: جو چیز پیالہ کے گڑھے کو چھپالے۔ السَّقْعَرَةُ: پست زمین۔ کہا جاتا ہے اِنَاءُ قَعْرَانٍ وَمِقْعَارٌ: زیادہ گہرا پیالہ وَقَصْعَةٌ قَعْرِيٌّ: پیالہ جس میں کوئی چیز ہو جو اس کے گڑھے کو چھپالے۔ وَقَدَحٌ قَعْرَانٌ: گہرا پیالہ۔

السَّقْعُوْرُ وَالْقَعِيْرُ: زیادہ گہرا۔ الْقَيْعَرُ وَالْقَعَارُ وَالْمِقْعَارُ: حلق سے بولنے والا۔ قَعْبٌ مِقْعَارٌ: زیادہ گہرا بڑا پیالہ۔ الْمَقْعَرُ: گہرا۔ الْمَقْعَرُ مِنَ الْخَطُوْطِ: دھنسی ہوئی لکیریں۔

السَّقْعُوْرُ وَالْقَعِيْرُ: زیادہ گہرا۔ الْقَيْعَرُ وَالْقَعَارُ وَالْمِقْعَارُ: حلق سے بولنے والا۔ قَعْبٌ مِقْعَارٌ: زیادہ گہرا بڑا پیالہ۔ الْمَقْعَرُ: گہرا۔ الْمَقْعَرُ مِنَ الْخَطُوْطِ: دھنسی ہوئی لکیریں۔

السَّقْعُوْرُ وَالْقَعِيْرُ: زیادہ گہرا۔ الْقَيْعَرُ وَالْقَعَارُ وَالْمِقْعَارُ: حلق سے بولنے والا۔ قَعْبٌ مِقْعَارٌ: زیادہ گہرا بڑا پیالہ۔ الْمَقْعَرُ: گہرا۔ الْمَقْعَرُ مِنَ الْخَطُوْطِ: دھنسی ہوئی لکیریں۔

السَّقْعُوْرُ وَالْقَعِيْرُ: زیادہ گہرا۔ الْقَيْعَرُ وَالْقَعَارُ وَالْمِقْعَارُ: حلق سے بولنے والا۔ قَعْبٌ مِقْعَارٌ: زیادہ گہرا بڑا پیالہ۔ الْمَقْعَرُ: گہرا۔ الْمَقْعَرُ مِنَ الْخَطُوْطِ: دھنسی ہوئی لکیریں۔

السَّقْعُوْرُ وَالْقَعِيْرُ: زیادہ گہرا۔ الْقَيْعَرُ وَالْقَعَارُ وَالْمِقْعَارُ: حلق سے بولنے والا۔ قَعْبٌ مِقْعَارٌ: زیادہ گہرا بڑا پیالہ۔ الْمَقْعَرُ: گہرا۔ الْمَقْعَرُ مِنَ الْخَطُوْطِ: دھنسی ہوئی لکیریں۔

السَّقْعُوْرُ وَالْقَعِيْرُ: زیادہ گہرا۔ الْقَيْعَرُ وَالْقَعَارُ وَالْمِقْعَارُ: حلق سے بولنے والا۔ قَعْبٌ مِقْعَارٌ: زیادہ گہرا بڑا پیالہ۔ الْمَقْعَرُ: گہرا۔ الْمَقْعَرُ مِنَ الْخَطُوْطِ: دھنسی ہوئی لکیریں۔

السَّقْعُوْرُ وَالْقَعِيْرُ: زیادہ گہرا۔ الْقَيْعَرُ وَالْقَعَارُ وَالْمِقْعَارُ: حلق سے بولنے والا۔ قَعْبٌ مِقْعَارٌ: زیادہ گہرا بڑا پیالہ۔ الْمَقْعَرُ: گہرا۔ الْمَقْعَرُ مِنَ الْخَطُوْطِ: دھنسی ہوئی لکیریں۔

السَّقْعُوْرُ وَالْقَعِيْرُ: زیادہ گہرا۔ الْقَيْعَرُ وَالْقَعَارُ وَالْمِقْعَارُ: حلق سے بولنے والا۔ قَعْبٌ مِقْعَارٌ: زیادہ گہرا بڑا پیالہ۔ الْمَقْعَرُ: گہرا۔ الْمَقْعَرُ مِنَ الْخَطُوْطِ: دھنسی ہوئی لکیریں۔

السَّقْعُوْرُ وَالْقَعِيْرُ: زیادہ گہرا۔ الْقَيْعَرُ وَالْقَعَارُ وَالْمِقْعَارُ: حلق سے بولنے والا۔ قَعْبٌ مِقْعَارٌ: زیادہ گہرا بڑا پیالہ۔ الْمَقْعَرُ: گہرا۔ الْمَقْعَرُ مِنَ الْخَطُوْطِ: دھنسی ہوئی لکیریں۔

السَّقْعُوْرُ وَالْقَعِيْرُ: زیادہ گہرا۔ الْقَيْعَرُ وَالْقَعَارُ وَالْمِقْعَارُ: حلق سے بولنے والا۔ قَعْبٌ مِقْعَارٌ: زیادہ گہرا بڑا پیالہ۔ الْمَقْعَرُ: گہرا۔ الْمَقْعَرُ مِنَ الْخَطُوْطِ: دھنسی ہوئی لکیریں۔

السَّقْعُوْرُ وَالْقَعِيْرُ: زیادہ گہرا۔ الْقَيْعَرُ وَالْقَعَارُ وَالْمِقْعَارُ: حلق سے بولنے والا۔ قَعْبٌ مِقْعَارٌ: زیادہ گہرا بڑا پیالہ۔ الْمَقْعَرُ: گہرا۔ الْمَقْعَرُ مِنَ الْخَطُوْطِ: دھنسی ہوئی لکیریں۔

السَّقْعُوْرُ وَالْقَعِيْرُ: زیادہ گہرا۔ الْقَيْعَرُ وَالْقَعَارُ وَالْمِقْعَارُ: حلق سے بولنے والا۔ قَعْبٌ مِقْعَارٌ: زیادہ گہرا بڑا پیالہ۔ الْمَقْعَرُ: گہرا۔ الْمَقْعَرُ مِنَ الْخَطُوْطِ: دھنسی ہوئی لکیریں۔

قَعُورٌ: گہرا کٹواں۔	قدیم۔ اصلی عزت۔	کرنا۔ تقاضا کرنے میں سختی کرنا۔ وَقَعَطُ فِي الْقَوْلِ: بے ہودہ بننا۔
قَعْرَطٌ قَعْرُطَةٌ: اُچاڑنا۔ ویران کرنا۔	قَعَشَ (ف) قَعَشًا: الخائِطُ: دیوار گرانا۔	قَعِطٌ (س) قَعَطًا: ذلیل ہونا۔
قَعَزَ (ف) قَعَزًا: الإِنَاءُ: برتن کو بھرنا..... مَا فِي الإِنَاءِ: برتن سے سب کچھ لی جانا۔	قَعَشَ: گرنا..... الْقَوْمُ: جانا۔	أَقَعَطُ: سخت چیخنا..... فِي الْقَوْلِ: بے ہودہ بننا۔ أَقَعَطَهُ: اہانت کرنا۔ ذلیل کرنا.....
قَعَسَ (س) قَعَسًا وَقَعَسَسَ: سید لکنا اور پیٹھ دھنا۔ صفت قَعَسَ ج قَعَسَانٍ وَأَقَعَسَ: مؤنث قَعَسَاءُ ج قَعَسٌ.	القَعَشُ: مہم۔ ہودہ کی مانند عورتوں کی سواری ج قَعُوشُ.	القَوْمُ عَنْهُ: علیحدہ ہونا۔ جدا ہونا..... فِي آثَرِهِ: پیچھے دوڑنا۔
قَعَسَ (ن) قَعَسًا: سید اُبھار کر اور پیٹھ دھنا کر چلنا..... الشَّيْءُ: موڑنا۔	قَعَصَهُ (ف) قَعَصًا وَقَعَصَهُ: جگہ پر قتل کرنا۔ جگہ پر مار ڈالنا۔	تَقَعَطُ وَأَنْقَعَطُ السَّخَابُ: بادل کا کھل جانا۔
قَعَسَ (ض) قَعَسًا: تکلف سید اُبھار کر اور پیٹھ دھنا کر چلنا۔	قَعَصَتِ الشَّاةُ: قَعَصَ: کی بیمار ہونا۔ (دیکھو قعاص) دودھ دوہنے میں مارنے والی ہونا۔	القَاعِطُ: قَاعًا: قرض دار پر سختی کرنے والا۔
تَقَاعَسَ: سید نکالنا..... عَنِ الأَمْرِ: پیچھے ہٹنا..... فُلَانٌ: سید نکالنے والے کے مشابہ ہونا..... الفَرَسُ وَغَيْرُهُ: ہانکنے والے کے تابع نہ ہونا..... العِزُّ: عزت کا پائیدار ہونا۔	إِنْقَعَصَ: جگہ ہی پر مرنا..... الشَّيْءُ: مڑنا۔	القَعِطُ: مہم۔ بہت بکریاں۔
العُقَاسُ: تو آگم ہونا۔	القُعَاصُ: ایک بیماری ہے جو سینہ میں ہوتی ہے اور گردن توڑ دیتی ہے۔	المِقْعَطُ وَالمِقْعَطَةُ: عمامہ۔ پگڑی جو سر کے اوپر باندھی جائے۔
تَقَاعَسَ: سید نکالنے والے کے مشابہ ہونا..... الفَرَسُ وَغَيْرُهُ: ہانکنے والے کے تابع نہ ہونا..... العِزُّ: عزت کا پائیدار ہونا۔	القُعَاصُ: مہم۔ فی الفور موت۔ منہدم شدہ مکان۔	قَعِطَبُ: الشَّيْءُ: کاٹنا۔
العُقَاسُ: ایک بیماری جس میں بکریاں بہت مرتی ہیں۔	القُعَاصُ وَالمِقْعَصُ وَالمِقْعَاصُ: شیر جو شکار کو فوراً مار ڈالے۔	قَعِطْرَةٌ: پچھاڑنا۔ مضبوط باندھنا۔ قَعِطْرٌ: الإِنَاءُ: برتن بھرنا۔
الأَقْعَسُ: بلند۔ عِزُّ الأَقْعَسِ: عزت ثابت۔	القُعُوصُ: بکری جو دوہنے والے کو مارے اور دوہنے نہ دے۔	إِقْعَطْرٌ: سانس منقطع ہونا۔
مؤنث قَعَسَاءُ ج قَعَسٌ وَعِزَّةٌ قَعَسَاءُ: عزت۔ پائیدار۔ كَيْلُ الأَقْعَسِ: لمبی رات۔	قَعَضَ (ن) قَعَضًا القُضْنُ: شاخ کو موڑنا۔	قَعِظَلَةٌ: پچھاڑنا۔ قَعِظَلٌ عَلَيَّ غَرِيمُهُ: قرض دار سے قرض کے مطالبہ میں سختی کرنا۔
بَعِيزٌ الأَقْعَسُ: سر پیٹھ گردن جھکا ہوا اونٹ۔	إِنْقَعَضَ: جھکنا۔	القَعِظَلُ: تیز۔ جلد باز۔
فَرَسٌ الأَقْعَسُ: پست پیٹھ کا گھوڑا۔	القَعَضُ: مہم۔ جھکا ہوا۔ کہا جاتا ہے "غَوْذٌ قَعَضٌ" جھگی ہوئی لکڑی۔ یہ وصف بالصدر ہے۔	قَعَفَ (ف) قَعَفًا: التَّرَابُ: تیز دوڑنے کی وجہ سے غبار اُڑانا..... السَّخْلَةُ: درخت خرما کو جڑ سے اکھیڑنا..... مَا فِي الإِنَاءِ: برتن سے سب کچھ لی لینا..... المَطَرُ الجِجَارَةُ: بارش کا پتھر کو بہا لے جانا۔
وَمَقَاعِيسُ.	قَعَضَبٌ قَعَضَبَةٌ: جڑ سے اکھیڑنا۔	قَعِيفٌ (س) قَعِيفًا: الخائِطُ: دیوار کا گرنا۔
تَقَعُوسُ الشَّيْخِ: بہت بوڑھا ہونا.....	القَعَضَبُ: بہت دلیر۔ قَوِيّ۔ القَعَضَبَةُ: سختی۔	تَقَعِفٌ وَأَنْقَعِفُ وَأَقَعِفُ الخائِطُ: دیوار کا جڑ سے منہدم ہونا..... الجُرْفُ: وادی کے کناروں کا گرنا..... الشَّيْءُ: اپنی جگہ سے زائل ہونا۔ وَأَقَعِفُ الشَّيْءُ: حرص سے لینا۔
الْبَيْتُ: گرنا..... الرَّجُلُ: پیچھے ہٹنا اور آگے نہ بڑھنا۔	قَعَطَ (ف) قَعَطًا: بہت چیخنا۔ بزدل ہونا۔	القَعِيفُ: مہم۔ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں جو سلسلہ دار ہوں۔
القَعُوسُ: بہت بوڑھا۔ مضبوط پیٹھ والا۔	خُكٌ ہونا..... فُلَانًا: دھکا دینا۔ پچھاڑنا۔	القَاعِيفُ: قَاعًا: سخت بارش۔
قَعَسَبٌ قَعَسَبَةٌ: خوف کی وجہ سے تیز دوڑنا۔ الشَّيْءُ: ضبط کرنا..... عَنْ وَجْهِهِ: چہرہ کھولنا۔	سَبِيلُ قَعَاعٍ: سخت سیلاب جو تمام چیزوں کو بہا لے جائے۔
القُعَاسِبُ: بلند قامت۔ عَلَيَّهِ: غضبناک ہونا..... وَأَقْعَطُ العِمَامَةَ: سر پر پگڑی باندھنا۔ قَعَطُ وَقَعِطُ الذَّابَّةُ: چوپایہ کو تیز ہانکنا۔ صفت قَعِطَاطٍ وَقَعِطُ وَقَعِطُ عَلَيَّ غَرِيمُهُ: قرض دار پر سختی	
قَعَسَرٌ قَعَسَرَةٌ: مضبوطی سے پکڑنا۔ قَعَسَرَ عَلَيْهِ: قوی ہونا..... الشَّيْءُ: سخت ہونا۔		
القَعَسَرِيُّ: مضبوط اونٹ۔ چنگی کا ہتھیار (Handel)۔ عِزُّ قَعَسَرِيٍّ: عزت		

کا سوراخ۔ کھاڑی کے مانند ایک چیز۔ بلند زمین۔ چٹائی زمین سلسلہ وار کہ جس کے درمیان نرم زمین نہ ہو۔ پہاڑ کے مانند سیاہ بادل۔ قُفُّ البُسْرِ: کنوئیں کے ارد گرد کا چوتراہ..... من الناس: مختلف قسم کے لوگ ج قفاف واقفاف۔

القَفَّة: خشک درخت۔ خشک کدو۔ کھاڑی کی مانند ایک چیز۔ بلند زمین۔ کھجور کی پتیوں کی ٹوکری۔ ج قفف۔

القَفَّة والقَفَّة: من الرجال: پستہ قد۔ کمزور۔ القَفَّة: خرگوش۔ القَفَّة والقَفَّة والقَفَّة: بخار کی وجہ سے کپکپی۔

القَفَّة: اسم نوع۔ نوزائیدہ بچے کا پہلا پانچا نہ۔

القَفَّاف: صراف جو درہم کو انگلیوں کے درمیان چرالے۔

القَفَّان: امانت دار۔ کہا جاتا ہے ”اتينته علي قَفَّان ذلک“ میں اس کے پاس اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ ”وهذا قَفَّانه“ یہ اس کا وقت ہے۔

القَفَّان: جماعت۔

قَفَّيْ (س) قَفَّأ المَكَانَ: بارش یا مٹی پڑ جانے کی وجہ سے تباہ شدہ پودوں والی ہونا۔ اِقْفَأ السَّخْرَ: توشہ دان وغیرہ کی سلاکی دوبارہ کرنا۔

قَفَّئِلَ الشَّيْ: جلدی سے لے جانا۔ جز سے اکھیرنا۔

قَفَّحَهُ (ف) قَفَّحًا: ناپسند کرنا اور چھوڑ دینا۔

..... الشَّيْ: دوا کی طرح پھانکنا۔ قَفَّحَ عَنِ الشَّيْ: باز رہنا۔

القَفَّيْحَةُ: مکھن جس پر بکری کا دودھ دوبا جائے۔

قَفَّحَهُ (ف) قَفَّحًا وَقَفَّحًا: مارنا۔ کھوکھلی یا خشک چیز یا سر پر ہی مارنے کے لئے مستعمل ہے۔

القَفَّيْحَةُ: ایک قسم کا کھانا جو چربی اور کھجور

قَفِيمَ (س) قَفِيمًا وَقَفِيمَ الرَّجُلِ: بیمار ہو کر فوراً مرنا۔ اَقْعَمَتِ الحَيَّةُ: ڈسنا اور تورا مار ڈالنا..... الشمسُ: آفتاب کا بلند ہونا۔

القَفِيمَ: مص۔ بلی کی آواز۔

القَفِيمَ: ناک میں جھکاؤ۔

قَفِيمَةُ المَالِ: عمدہ مال۔

القَفِيمَةُ: بلی۔ بوڑھا اونٹ۔

قَفِينِ (س) قَفِينًا الاَنْفَ: ناک کا چپٹا ہونا۔ ہانسہ بلند ہونا۔ صفت اَقْفَنَ مَوْنِثَ قَفِينًا ج قَفِينٌ اور تَصْغِيرَ قَفِينٍ۔

القَفِينُ: آنا گوند سے کا بڑا برتن۔

قَفِي يَقْفِي قَفًا: ہانسہ کا بلند ہونا پھر جھکنا۔ صفت اَقْفَى: مَوْنِثَ قَفَوَاءِ۔

اَقْفَى الكَلْبُ: کتے کا چوڑا پر بیٹھنا..... اَنْفَهُ: ناک بلند ہانسہ والی ہونا..... قَرَسَهُ: گھوڑے کو بچھلے پاؤں لوٹانا۔

قَفَا يَقْفُو قَفَوًا وَقَفُوا الفَحْلَ والطَّائِرَ: جفتی کرنا۔

اِقْفَى: جفتی کرنا۔

القَفْوُ: مص۔ لکڑی یا لوہے کا دھرا جس پر چرخی گھومتی ہے۔ القَفْوَانُ: دو لکڑیاں یا لوہے کہ جس میں چرخی کا دھرا ہوتا ہے ج قَفِي۔

القَفْوَةُ: ران کی جڑ۔ ج قَفِي۔

قَفَّ (ن) قَفَّوفا العُشْبُ او الشَّجَرُ: گھاس یا درخت کا خشک ہونا۔ قَفَّيْتُ الأَرْضَ: خشک پیداوار والی ہونا.....

الشَّعْرُ: روٹ گئے کھڑا ہونا..... الشَّيْ: سمنٹا۔ سگڑنا..... السُّوْبُ: کپڑے کا دھونے کے بعد خشک ہونا..... الصَّيْرَفِيُّ: صراف کا

دوا گلیوں کے درمیان دراہم کو چرانا۔

اَقْفَّ: خشک چراگاہ پانا۔ اَقْفَبَتِ الذَّجَاجَةُ: مرثی کا انڈے دینے سے رکنا..... السَّعِينُ:

آنسو خشک ہونا۔

اِسْتَقْفَّ: سمنٹا۔ سگڑنا۔

القَفَّ والقَفِيْفُ: خشک سبزی۔

القَفَّ: پستہ قد۔ چیز کا بیرونی حصہ۔ کھاڑی

قَفَّعَ الرَّجُلُ: اکڑوں بیٹھے والے کی طرح بیٹھنا..... فِى السَّمْسِ: چھوٹے چھوٹے قدم سے چلنا لُة الكلام: کسی کو سخت کلامی سے اپنے آپ سے ہٹانا۔

قَفَّعَ الرَّجُلُ: بیٹھنا۔

اِقْفَعُفْ: اس شخص کی بیشک بیٹھنا جو کودنے کو تیار ہو۔

اَلْقَفْعَزِيُّ: اس شخص کی بیشک جو کودنے کو تیار ہو۔

قَفَّعَ قَفْعَةً: زخم کرنا۔

القَفْعَةُ: زخم۔

القَفْعَبُ: ایک قسم کا پرندہ جو سانپوں کو کھاتا ہے۔

قَفَّعَتِ عُمْدَهُمُ: کوچ کرنا..... الشَّيْ اليَاسِ: آواز کے ساتھ حرکت دینا.....

القِدَاخُ: تیروں کو جوئے میں گھمانا..... فِى الارضِ: جانا۔ کہتے ہیں ”فَلَا تَرَى مَا يَقْفَعُ لَهُ بِالسَّنَانِ“ اس شخص کے متعلق جو حوادث

زمانہ سے خائف نہ ہو اور بے باک رہے۔

تَقْفَعُ: مضطرب ہونا۔ متحرک ہونا۔

حکرت کے وقت آواز دینا۔ تَقْفَعَتِ عُمْدَهُمُ: وہ کوچ کر گئے۔

القَفْعَاعُ: ہتھیار کی جھکار۔ خشک کھجور۔ لرزہ کے ساتھ بخار۔ دشوار گزار راستہ (.....)

والقَفْعَانِيُّ) وہ شخص جس کے چلنے میں پیر کے جوڑوں سے آواز نکلے۔

القَفْعَاعُ: بادل کے گرج کی لگا تارخت آواز اور یہ قَفْعَعَةُ: کی جمع ہے۔ القَفْعَعَةُ: دانتوں کی کڑکڑاہٹ۔

القَفْعَاعُ: بہت آواز والا۔

اَفْعَلُ واقْفَالٌ اِقْفَعَالًا: نُورٌ: شگوفہ نکلتا۔ اِقْفَالُ الرَّايِبِ: سوار کا سیدھا ہونا۔

اِقْفَعَلُ القَفَالِ: شگوفہ کو ڈور کرنا۔

القَفْعَالَةُ: واحد قَفْعَالٍ: شگوفہ جو جھمڑ جائے۔

اُونْتُ کا گرا ہوا خون۔

قَفْعَمَ (ن) قَفْعَمًا السُّنُورَ: بلی کا میاؤں

میاؤں کرنا۔

سے بنایا جاتا ہے۔

الْقَفْحَةُ: گائے جو جھنکی کی خواہش مند ہو۔

الْقَفَاخُ: متناسب الاعضاء پر گوشت عورت۔

الْقَفَاخِرُ وَالْقَفَاخِرِيُّ: بڑے جیش کا۔

الْقَفَاخِرِيُّ: نازک بدن پر گوشت۔

قَفَذَ (ض) قَفْذًا: کام کرنا۔ کہا جاتا ہے "خفا

ز لث أفقد لك مذبذوم" میں آج کے

دن تمہارے لئے کام کرتا رہا.....: ہمدی

پر تھپڑ مارتا۔ بغیر شملہ لٹکائے ہوئے پگڑی

باندھنا۔

قَفِذَ (س) قَفْذًا: ڈھیلی یا موٹی گردن والا

ہونا۔

الْأَفْقِدُ: ڈھیلی یا موٹی گردن والا۔

بچوں کے بل چلنے والا۔ موٹے ہاتھ پیر

چھوٹی انگلیوں والا۔ مَوْنِثُ قَفْدَاءُ ج قَفْدُ:

کہا جاتا ہے "أَعْتَمَ الْقَفْدَاءُ وَالْقَفْدُ" بغیر

شملہ لٹکائے ہوئے پگڑی باندھی۔

الْقَفْدَانُ وَالْقَفْدَانَةُ: سر مردانی کا غلاف۔

چمڑے کی تھیلی جس میں خوشبو رکھتے ہیں

(دخیل)

قَفَّرَ (ن) قَفْرًا وَقَفَّرَ وَقَفَّرَ الْأَثَرُ: پیچھے

جانا تلاش کرنا۔ اِقْفَرَ الْعَظْمُ: ہڈی

چھوڑنا۔

قَفِيرٌ (س) قَفْرًا مَالُهُ: کم ہونا۔ صفت قَفِيرٌ

السَّالِبُ..... الطَّعَامُ: کھانا بغیر سالن کے

ہونا۔

قَفَّرَ التُّرَابَ وَنَحْوَهُ: مٹی وغیرہ جمع کرنا۔

أَقْفَرٌ: بیابان ہے آب و گیاہ کی طرف جانا۔

..... السَّمْكَانُ: گھاس پانی اور آدی سے خالی

ہونا۔

..... الرَّجُلُ مِنَ أَهْلِهِ: اکیلا ہونا..... رَأْسُهُ

مِنَ الشَّعْرِ: سر کا بال سے خالی ہونا۔ بھوکا

ہونا۔ بے کھانا ہونا۔ بے سالن ہونا۔ بے

سالن کے روٹی کھانا..... البَلْدَةُ: شہر کو خالی

پانا..... الْعَظْمُ: ہڈی چھوڑ کے صاف کر

دینا۔

الْقَفْرُ: گھاس پانی آدی سے خالی زمین۔ کہا

جاتا ہے "أَرْضٌ قَفْرٌ وَأَرْضٌ قِفَارٌ" بے

آب و گیاہ چھیل میدان۔ "نَزَلْنَا بَنِي فُلَانٍ

قَبَسًا الْقَفْرَ" یعنی ہم بنو فلاں میں اترے اور

انہوں نے ہماری مہانداری نہیں کی "وَبَنَاتِ

فُلَانٍ الْقَفْرَ وَالْوَحْشَ" یعنی فلاں کی

مہانداری نہیں کی گئی۔ الْقَفْرُ: تیل جو جھکتی

کرنے کے لئے ماں سے جدا کر لیا جائے۔

الْقَفْرُ: مصل۔ بال۔

الْقَفِيرُ: کم بال والا۔ بھیر یا۔

جُزْ قَفْرٌ وَقَفَارٌ: بے سالن کی روٹی۔

الْقَفِيرُ: شہد کا حوت۔ ٹوکری۔ بے سالن کی

روٹی ج قَفْرَانُ.

الْقَافُورُ وَالْقَفُورُ وَالْقَفُورَةُ: جھجور کے ٹھونڈ

کا غلاف۔ کہا جاتا ہے "أَرْضٌ مِقْفَارٌ" خالی

زمین۔

قَفَزَ (ض) قَفْرًا وَقَفْرًا وَقَفَارًا وَقَفُورًا:

مرنا..... السَّغْرَالُ: ہرن کا کودنا۔ اچھلنا۔

چھلانگ مارتا۔

قَفِزَ (س) قَفْرًا. الْقَرْسُ: گھوڑے کی اگلی

ٹانگوں میں گھٹنے تک سفیدی ہونا۔

قَفْرَةٌ: کودنا۔

تَقَفَّرَ بِالْحِجَابِ: مہندی سے نقش و نگار کرنا۔

تَقَافَرُ الْقَوْمُ: باہم کودنا۔

الْقَفْرِيُّ: اچھل۔ کودنا۔ کہا جاتا ہے "عَدَدَتِ

الْخَيْلُ الْقَفْرِيَّ" یعنی گھوڑے کو دو دو کر

دوڑے۔

السَّقَافِزَةُ: قافز کا مَوْنِثُ۔ تیز رفتار گھوڑا۔

میںڈک۔ ج قَوَافِزُ.

الْقَفِيرِيُّ: ایک پھانسی کا نام..... مِنَ الْأَرْضِ: ایک

سوچا لیس شری لڑ۔ ج أَقْفَرَةٌ وَقَفْرَانُ.

الْأَقْفَرُ وَالْمَقْفَرُ مِنَ الْخَيْلِ: اگلی ٹانگ میں

گھٹنے تک سفید گھوڑا۔

الْقَفَّازُ: عورتوں کے ہاتھ پیروں کا زیور۔

دستانہ عوام كَقُوفٍ: کہتے ہیں۔ ج قَفَافِيزُ.

الْقَفَّازُ: بہت کودنے والا۔

الْقَفِيرِيُّ: بچوں کا ایک کھیل کہ لکڑی گاڑ کر

اس پر کودتے ہیں۔

قَفَسَ (ن ض) قَفْسًا وَقَفُوسًا: مرنا.....

الشَّيْءُ: غصہ سے زبردستی پکڑنا..... فَلَائِسًا:

بال پکڑنا اور نیچے گھسیٹنا)..... قَفَسًا: الظَّنِّي:

ہرن کی ٹانگوں کو باندھ دینا)..... قَفَاسًا:

جوڑوں کی بیماری والا ہونا۔

قَفِيسَ (س) قَفْسًا: بانسہ کے کنارے کا بڑا

ہوتا۔ تَقَفَّسَ. الظَّنِّي: ہرن کا چھلانگ

مارتا۔

تَقَافَسَ الرَّجُلَانِ بِشَعْوَرِهِمَا: ایک

دوسرے کے بال پکڑنا۔

القَافِيسَةُ: قَافِيسُ: کاموٹ۔ کہنے لوگ۔

قَفَّاسُ. مَبْنِي عَلَى الْكَسْرِ: کہتے لوٹڈی۔

الْأَقْفَسُ: باندی بچہ۔ ہر وہ چیز جو بلی اور بھکی

ہوئی ہو۔ عِبْدُ أَقْفَسٍ: کہنے غلام۔

السَّقْفِيسَاءُ: أَقْفَسُ كَامُوْتٌ۔ کہتے لوٹڈی۔

معدہ یا پیٹ۔

قَفَّشَ (ن ض) قَفَّشًا. الطَّعَامُ: بہت حرص

سے کھانا..... الشَّيْءُ: لینا اور جمع کرنا۔ ة

بِالْعَصَا: الَّحْشَى سے مارنا..... النَّاقَةُ: اونٹنی کو

تیز دوہنا..... مَا فِي الصَّرْعِ: دوہ کر جلدی

ختم کر دینا..... السَّمْرَةُ: بہت جماع کرنا

(..... قَفَّشًا وَقَفُوشًا) مرنا۔

إِنْقَفَسَ وَاقْتَفَشَ وَاقْتَفَشَ الْعَنْكَبُوتُ

وَنَحْوَهُ: مکڑی وغیرہ کا سٹ کر بیٹھنا۔

الْقَفْشُ: مصل نشاط۔ چھوٹا چرمی موزہ۔

الْقَفْشُ: چور (الْقَفْشِيلِيُّ) کف گیر۔

قَفَّصَ (ض) قَفْصًا الظَّنِّي: ہرن کی ٹانگیں

باندھنا..... الشَّيْءُ: قریب قریب رکھنا.....

الرَّجُلُ: تکلیف دینا..... الِيعْسُوبُ:

دھاگے سے باندھ کر چھتے میں رکھنا.....

الطَّابِرُ: پنجرے میں بند کرنا۔

قَفِصَ (س) قَفْصًا: ہلکا پھلکا ہونا۔ سردی

سے سن ہونا..... الْقَرْسُ: پورے دوڑ سے نہ

دوڑنا۔ صفت قَفِصَ.

قَفَّصَ. الظَّنِّي: ہرن کی ٹانگیں باندھنا۔

تَقَفَّصَ: اکٹھا ہونا۔

تَقَافَصَ: مختلط ہونا۔ اکٹھا ہونا۔

أَقْفَصُ: الرَّجُلُ: بَجْرٌ وَالْأُحْمَاءُ. الْقَفْصُ: بَجْرٌ. الْقَفْصُ: غَلْدٌ وَغَيْرُهُ رَكْعَتَيْنِ كَمَا بَرْتَنُجُ أَقْفَاصُ (..... الْقَفْصُ وَالْقَفْصُ) مُتَخَلِّطٌ. الْقَفَاصَةُ: قَافِصٌ كَمَا مَوْنَتْجُ قَفَوَافِصُ: كَيْفِيَّةٌ لَوَجْهٍ. الْقَفَافِصُ: بِهَازِي بُكْرًا. أَيْكٌ بِيَارِي هِيَ جَوْ جَانُورُونَ كَوَالِحٌ هَوْتِي هِيَ جَسٌ سَ ان كِي نَاكِي شَكٌ هُو جَاتِي هِيَ. الْمُقْفِصُ: مَفْعٌ. نَوْبٌ مُقْفِصٌ: بَجْرٌ سَ كِي طَرَحٌ مَقْشٌ كِبْرًا. الْقَفْصُ: شِيرٌ. قَفَعَةٌ (ف) قَفَعًا بِالسَّقْفَةِ: قَبِي سَ مَارَتَا..... هَ عَن كَلْمًا: مَفْعٌ كَرَمًا. قَفِيعَةٌ (س) قَفِيعًا وَتَقْفَعْتُ الْإِذْنَ: كَانُ كَاسْكَرْتَا. أَيْ سَ كَانُ كَوَقْفَعَاءُ أَو رَايَ سَ كَانُ وَالِ كَوَاقْفِعُ: كَيْفِي هِيَ..... السَّرْجُلُ: الْكَلْبُ كِي قَدَمُ كِي جَانِبُ مَرَا هُو هُونَا..... السَّافَةُ: چھوٹی ڈم والی ہونا۔ تَقْفَعُ الشَّيْءُ: سَمَاتَا. قَفَعُ الشَّيْءُ: بَرْتَنُ مِثْلُ رَمْنًا..... الْبَرْدُ أَصَابَعُهُ: سَرْدِي كَا الْكَلْبُ كُو شَكٌ كَرَمِيَا. سَكْرًا هُو كَرَمِيَا. إِنْقَفَعَ: النَّبَاتُ: بِنَاتَاتُ كَا شَكٌ أَو رَحْتِ هُونَا..... عَنَّهُ: بَارَزِيَا. الْقَفْعُ: مِصٌّ أَيْكٌ جَنْجَلِي آدِ هِيَ جَسٌ كُو حِصَارِ كِي مَوْجِعٌ پَرَا سْتِمَالُ كَرْتِي تَحْتِ أَو رَا سَ كِي اندر داخل ہو کر قلعہ کی دیوار تک پہنچ کر سوراخ کرتے تھے۔ واحد قَفْعَةٌ. الْقَفْعُ: مِصٌّ. حَمَلٌ. حَمَلٌ. الْقَفْعَةُ: نِيحٌ سَ كَشَادِهٍ أَو رَحْمَتِ مَدَنِي تُوكَرِي. رَجٌ قَفَاعٌ وَقَفْعَاتٌ. الْقَفْعَةُ: بُدِي ذَلُ. الْقَفَاعُ وَالْقَفَاعُ: أَيْكٌ بِيَارِي جُو بُكْرِيُونُ كُو لَا حِنٌ هَوْتِي هِيَ جَسٌ سَ ان كِي نَاكِي مِيزِي هَو جَاتِي هِيَ. الْقَفَاعُ: اِسْمٌ مَبَالِغٌ.	الْقَفَاعَةُ: أَيْكٌ مِصٌّ كَا مِصْدَا جُو رَحْتِ خَرَمَا كِي شَاخٌ سَ بِنَاتِي هِيَ أَو رَا سَ سَ پَرْمَدُونُ كَا شَاخُ كَرْتِي هِيَ. الْأَقْفَعُ: سَكْرٌ هُو سَ كَانُ وَالْأَسْكَرِي هَوْتِي الْكَلْبُ وَالْأَسْكَرِي هَمِيشَ سَر جَمَكَا سَ رَكْعَتِي وَالْأَسْكَرِي: چھوٹی ڈم والی۔ الْقَفَاعُ: كَمَا مَوْنَتْجُ قَفَعُ أَيْكٌ مِصٌّ كِي گھاس جس میں انگوٹھی کے مانند حلقے ہوتے ہیں مگر دونوں کنارے طے ہوئے نہیں ہوتے۔ شَاةٌ قَفْعَاءُ: چھوٹی دم والی بکری۔ الْمُقْفَعُ: ہمیشہ سر جھکائے رکھنے والا۔ رَجُلٌ مُقْفَعٌ الْيَدَيْنِ: سَكْرٌ هُو سَ ہاتھوں والا مرد۔ الْمُقْفَعَةُ: ہاتھ یا انگلی پر مارنے کی چھڑی۔ قَفَقَفْتُ قَفَقَفَةً وَتَقَفَقْتُ: سَرْدِي وَغَيْرُهُ سَ كَانِيَا..... النَّبْتُ: بِنَاتَاتُ كَا شَكٌ هُو تَا. قَفَقَفَا الطَّائِرُ: پَرْمَدُ سَ كِي دُونُونُ بَارُو. قَفَقَفَا الْبَعِيرُ: اَوْنَتْ كِي دُونُونُ جَزُرُ سَ. قَفَلٌ (ن ض) قَفَلًا وَقَفُولًا: سَفَرٌ سَ لَوْنَا فِي الْجَبَلِ: بِهَازِي پَر چڑھنا..... الْأَمِيرُ الْجُنْدُ: اَمِيرُ كَا فَوْجٌ كَو لَوْنَا تَا..... الشَّيْءُ : اَمْدَا زِهَ كَرَمًا (..... قَفَلًا الطَّعَامُ: گِرَانِي مِثْلُ بِيچنے کے لئے جمع کرنا۔ قَفَلٌ (ض) قَفُولًا الْفَرَسُ: لَاغَرٌ هُو تَا. صَفْتٌ قَفَائِلٌ..... الْفُحْلُ: جَفْتِي كِي لِي بِيچان مِثْلُ هُو تَا۔ قَفَلٌ (ن) قَفُولًا وَقَفِيلٌ (س) قَفَلًا: الْجَلْدُ: كَهَالُ كَا شَكٌ هُو تَا۔ قَفَلُ الْجَلْدُ: كَهَالُ كَا شَكٌ هُو تَا..... الْأَبْوَابُ: دَرَوَا زِ سَ بِنْدُ كَرَمًا۔ تَالَا لَكَا تَا۔ أَقْفَلُ الْبَابِ وَعَلَى الْبَابِ: دَرَوَا زِهَ پَر تَالَا لَكَا تَا۔ الْبَابُ: دَرَوَا زِهَ بِنْدُ كَرَمًا..... الْقَوْمُ: بِيچے سَ دِ كَيْفِي تَرَهِنَا. أَقْفَلُهُمْ عَن مَبْعَثِهِمْ: لَوْنَا تَا الْجَلْدُ: كَهَالُ كُو شَكٌ كَرَمًا..... الْقَالُ: أَيْكٌ هِيَ مَرْتَبَةٌ مِثْلُ سَبَ مَالُ دِيَا۔ الْقَوْمُ عَلَى الْأَمْرِ: بِيچُ كَرَمًا الْجَيْشُ: فَوْجٌ كَو لَوْنَا تَا۔
---	---

قَفْنٌ (ض) قَفُونًا: مرنا۔

قَفْنٌ رَأْسُهُ: سر کا ٹوٹنا دینا۔

القَفْنُ: مہم۔ موت۔ مقاتلہ۔

القَفْنُ وَالقَفْنُ: سر کا پچھلا حصہ۔ گدی۔

القَفْنُ: کوڑا۔

القَفْنُ: مردخت بد زبان۔

القَفْنَانُ: امین۔ تولنے کا ایک پیانا۔ قَفْنَانٌ

كُلُّ شَيْءٍ: ہر چیز کی جماعت۔ انجام کار۔

شَاةٌ قَفِيئٌ: ذبح کردہ بکری۔

قَفَا يَقْفُو قَفْوًا وَقَفْوًا: الرَّجُلُ: گدی پر

مارنا۔ صریحاً تہمت لگانا۔ اَنْرَةً: بیروی

کرنا۔ اللہ اَنْرَةٌ: مٹانا۔ حُكْرَانًا: (.....) واقفی

وَالقَفْنِي (الرَّجُلُ بِأَمْرِهِ: متعین کرنا۔ مخصوص

کرنا۔ اَقْفَى كَذَا عَلَيَّ كَذَا: فضیلت دینا۔

اِقْتَفَاةً: اتباع کرنا۔ وَاقْتَفَى الشَّيْءَ: اختیار

کرنا۔ اِقْتَفَى بِفُلَانٍ: کسی کے ساتھ اپنے

آپ کو خاص کرنا۔

قَفْنِي تَقْفِيَةٌ: آنا۔ فُلَانًا زَيْدًا

وَبَزِيدًا: بیروی کرنا۔ پیچھے چلانا۔ کہا جاتا ہے

"قَفَيْتُ عَلَيَّ اَثْرَهُ بِفُلَانٍ" میں نے فلاں کو

اس کے نشان قدم پر چلایا۔ قَفَى عَلَيْهِ: لے

جانا۔

تَقْفَى الرَّجُلُ: پیچھا کرنا۔ الاَحْمَةُ: نیلے

پر چڑھنا۔ الشَّيْءُ: چٹنا۔ بِفُلَانٍ: اکرام

کرنے میں مبالغہ کرنا (.....) وَاِسْتَقْفَى:

فُلَانًا بِالعَصَا: پیچھے سے آ کر سر پر لگایا

مارنا۔

تَقْفَى الرَّجُلُ: جھوٹی تہمت لگانا۔

القَوْمُ: ایک دوسرے پر تہمت لگانا۔

القَفَا والقَفَاءُ: سر کا پچھلا حصہ۔ گدی۔ مذکر

ہے اور کبھی مؤنث بھی استعمال کیا جاتا ہے

رَجُلٌ قَفِيٌّ وَقَفِيٌّ وَقَفِيٌّ وَقَفِيٌّ

وَقَفُونٌ: کہا جاتا ہے "لَا اَفْعَلُهُ قَفَا

الدَّهْرُ" میں اس کو زمانہ بھر نہیں کروں گا۔

القَفْوَةُ: غبار جو بارش کی ابتدا میں اٹھتا ہے کہا جاتا

ہے "هُوَ صَفْوَتِي وَقَفْوَتِي" وہ میرا بزرگ

ہے۔ "وَبِنَسِ القَفْوَةَ قَفْوَتُكَ" اس شخص

کے لئے کہا جاتا ہے جس کا انتخاب اچھا نہ

ہو۔

القَفْوَةُ: تہمت۔ بُرَى بَاتٍ کی نسبت کرنا۔

گناہ۔

القَفَاوَةُ: مہربانی۔ نوازش۔ مہمانی کا اکرام۔

جس چیز سے مہمان کا اکرام کیا جائے۔

موروثی عزت۔

القَفِيَّةُ: شکاری کا گڑھا جس میں وہ شکاری

گھات میں چھپتا ہے۔

القَفِيَّةُ: عیب۔

القَفِيَّةُ: نہایت مہربان۔ کرم مہمان۔ کھانا

جس سے مہمان کا اکرام کیا جائے۔ بہترین

بھائی۔ مہم بھائی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ قَفِيَّهُمْ

وَقَفِيَّتُهُمْ" وہ ان کا قائم مقام ہے۔

القَفِيَّةُ: فضیلت جو تمہیں غیر پر حاصل ہو۔

گوشہ کھانا جو مہمان کے سامنے رکھا جائے

شَاةٌ قَفِيَّةٌ: سر کے پیچھے کی طرف سے ذبح

کی ہوئی بکری اور کہا جاتا ہے "لَا اَفْعَلُهُ

قَفِيَّةَ الدَّهْرُ" یعنی میں زمانہ بھر اس کو نہیں

کروں گا۔

القَفِيَّةُ: گلے کا پچھلا حصہ۔ شعر کا آخری کلمہ

یا آخری حرف رَجْوَابٍ. قَفِيَّةٌ كُلُّ

شَيْءٍ: ہر چیز کا آخری۔ کہا جاتا ہے "اَتَيْتُهُ

عَلَيَّ قَفِيَّةَ الشَّيْءِ" میں اس کے پاس فلاں

چیز کے پیچھے آیا۔

الحِكْمَةُ المَقْفِيَّةُ: وہ کلام جس میں کج و قافیہ

ہو۔

القَفِيَّةُ: مہم۔ عِنْدَ الشعراء: اشعار میں

حرف آخر کا موافق ہونا۔

المَقْفِي مِنَ الغنم: گردن کی طرف سے ذبح

کی ہوئی بکری۔

رَجُلٌ مَقْفٌ وَمَقْفٌ: بہ چٹا ہوا مرد۔ عزت

کیا ہوا مرد۔

قَفَى يَقْفِي قَفْيًا الرَّجُلُ: گدی پر مارنا۔ قَفِيٌّ

بَاتٍ کا عیب لگانا۔

القَفَاةُ: الاپچی۔

القَفَالِيُّ: ایک قسم کی نمکین گھاس جو ایشان

کے مشابہ ہوئی ہے۔

القَوْفَلُ: زرچکور۔

القَافِمْ والقَافِمْ: ایک جانور ہے جو

نیولے کی شکل کا اور اس سے کچھ بڑا

ہوتا ہے اور اس کا رنگ گرمی میں

سرخ سیاہی مائل اور جاڑے

(سردیوں) میں بہت سفید ہوتا ہے۔

قَلٌّ (ض) قَلًّا وَقَلًّا وَقَلَّةٌ: کم ہونا۔

الرَّجُلُ: کم مال والا ہونا۔ العِجْمُ: بدن

کا دبلا اور چھوٹا ہونا اور کہا جاتا ہے "هُوَ يَقِلُّ

عَنِ كَذَا" یعنی وہ چھوٹا ہے۔ وَقَلٌّ

الشَّيْءُ: بلند ہونا اور کبھی قَلٌّ کے ساتھ ماکانہ

لاحق ہوتا ہے جیسے "قَلْنَا جِئْنَاكَ" اس

صورت میں فعل نہیں رہتا اور فاعل کا تقاضا

بھی نہیں ہوتا۔ اور قَلْنَا: دو معنی کے لئے

کبھی محض نئی کے لئے اور کبھی تھوڑی سی چیز

ثابت کرنے کے لئے مستعمل ہے (.....)

قَلَّ الشَّيْءُ: اٹھانا۔ قَلَّهُ عَنِ الارضِ: بلند

کرنا۔

قَلَّ الشَّيْءُ: کم کرنا۔ الشَّيْءُ فِي عَيْنِ

فُلَانٍ: سچ دکھانا۔

اَقْلَّ الشَّيْءُ: کم کرنا۔ الرَّجُلُ: کم لانا۔ کم

مال والا ہونا محتاج ہونا۔ الشَّيْءُ: بلند

کرنا۔ اٹھانا۔ اَقْلَنَهُ الرِّعْدَةُ: کچکی لگنا۔

قَالَ لَهُ العَطَاءُ: تھوڑا دینا۔

تَقَالَتِ الشَّيْءُ: کم گنا۔ تَقَالَتِ

الشَّمْسُ: آفتاب کا بلند ہونا۔

تَقَلَّتِ الشَّيْءُ: کم سمجھنا۔

اِسْتَقَلَّتِ الشَّيْءُ: اٹھانا اور بلند کرنا۔ کم سمجھنا۔

..... الطَّالِبُ فِي طَبْرِ اَيِّهِ: پرندہ کا اڑان میں

بلند ہونا۔ القَوْمُ: کوچ کرنا۔ اِسْتَقْلَنَهُ

الرِّعْدَةُ: کیوٹا۔ بزرگ: رائے میں منفرد

ہونا۔ بگڈا: اکیلا ہونا اور کسی کو شریک نہ

کرنا۔ فُلَانٌ غَضَبًا: ناراضی کی وجہ سے

اٹھ جانا۔ بِالْاَقْرَبِ: طاقت رکھنا۔

السَّحَابُ: ہادل کا بلند ہونا۔

القَلْبُ: چھوٹی دیوار۔ کچکی۔

الْقَبْلِ وَالْقَلْبِ: كم..... مِنَ الشَّيْءِ: كتر۔ کہا جاتا ہے "زَجَلَ قَلٌّ" اکیلا آدمی "هُوَ قَلٌّ أَيْن قَلٌّ" وہ غیر معروف ہے "قَلٌّ زَجَلٌ أَوْ قَلٌّ زَجَلٌ يَقُولُ ذَلِكَ إِلَّا زَيْدٌ" یعنی سوائے زید کے کوئی نہیں کہتا۔

القَلَّةُ: مرض سے صحت یا حصولِ دولت۔

القَلَّةُ: سرکا یا پہاڑ کا یا ہر چیز کا بالائی حصہ۔ لوگوں کی جماعت۔ بواگھر۔ چھوٹا کوڑھ قَلَّةُ السَّيْفِ: تلوار کے قبضے کی زیناٹش ن قَلِّلَ وَقِلَالَ.

قِلَالَةُ الْجَبَلِ: پہاڑی کی چوٹی۔

القِلَّةُ: کمی۔ مرض سے صحت یا حصول

دولت۔ کچی۔ ج قِلْسٌ اور کہا جاتا ہے

"زَجَلَ طَوِيلُ الْقَلَّةِ" یعنی لمبے قدم مرد۔

"أَخَذَهُ بِقَلْبَيْهِ وَبِقَلْبَيْهِ وَبِقَلْبَيْهِ

وَبِقَلْبَيْهِ: اس نے سب لے لیا "زَجَلُوا

بِقَلْبِهِمْ" وہ سب کوچ کر گئے اور اپنے پیچھے

کچھ نہیں چھوڑا۔ وَأَكَلَ الضَّبُّ بِقَلْبَيْهِ: یعنی

گودھ کو کھال و ہڈی سمیت کھا گیا۔

القَلْبِيَّةُ: عمارت۔ مشابہ معبد نصاریٰ۔

القَلِيلُ: كم۔ لاغر۔ ج قَلِيلُونَ وَأَقْلَاءُ

وَقَلِّلٌ وَقَلْلُونَ: مَوْنٌ قَلِيلَةٌ ج قَلِيلَاتٌ

وَقَلَائِلُ: کہا جاتا ہے "زَجَلَ قَلِيلٌ

الْخَيْرُ" مرد کم خیر و "قَلِيلٌ مِنَ الرِّجَالِ

يَسْأَلُ ذَلِكَ" یعنی اس کو کوئی نہیں کہتا۔

"فَمَا أَخَذَتْ مِنْهُ قَلِيلَةٌ وَلَا كَثِيرَةٌ" میں نے

اس سے کچھ نہیں لیا۔ تائے تائیت صرف نفی

کی صورت میں داخل ہوتی ہے۔

الْقِلَالُ وَالْقِلَالُ: كم۔ ج قَلِّلَ.

الْقِلَالُ: زمین سے انگور کی شاخوں کو

انٹھانے کے لئے تھوئی۔

الْقَلُّ مِنَ النَّاسِ: مَشْرُوقٌ لَوْجٌ.

الْأَقْلُ: كتر..... وَالْمُسْقِلُ: فقیر جس کے

پاس کچھ ہو۔

الْقَلْبِيُّ: پست قدم لڑکی۔

قَوْمٌ أَقْلَةٌ: خسیس درجہ کے لوگ۔

الْمُسْقِلُ: مَشْعٌ..... مِنَ السُّيُوفِ: جس کے

قبضے میں چاندی یا لوہا لگا ہوا ہو۔

الْمُسْتَقِيلُ: فا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مُسْتَقِيلٌ

بِنَفْسِهِ" وہ خود مختار ہے۔

قَلْبٌ (ض) قَلْبًا الشَّيْءُ: پلٹ دینا۔ اُوپر کا

نیچے کر دینا۔ اندر کا باہر کر دینا..... الْقَوْمُ

: بچھیر دینا۔ لوٹا دینا۔ کہا جاتا ہے "قَلْبٌ

الْمُعَلِّمِ الصَّبِيَّانِ" معلم نے بچوں کو ان کے

گھر لوٹا دیا الْمَجْنُونُ عَيْنُهُ: غضبناک ہونا۔

قَلَبَتِ الْبُشْرَةَ: یعنی مجبور کا سرخ ہونا۔ قَلْبٌ

الْأَرْضِ لِلزَّرَاعِيَةِ: زمین کو جو تباہ اور کہا جاتا

ہے "قَلْبٌ الْأَمْرُ ظَهْرًا الْبَطْنِ" اس نے

معاملہ کی آزمائش کی۔

قَلْبَهُ (ن ض) قَلْبًا: ول پر مارنا۔ قَلْبٌ

السَّخْلَةُ: گودا کا ٹکڑا..... اللُّهُ فَلَاتًا إِلَيْهِ

: موت دینا۔

قَلْبٌ (س) قَلْبًا: اُلٹے ہونٹوں والا ہونا۔

صفت۔ أَقْلَبُ. قَلَبَتِ الشَّقَّةُ: اُلٹا ہونا۔

صفت قَلْبَاءُ.

قَلْبٌ الْبَعِيزُ: اُونٹ کا دل کی بیماری والا

ہوتا۔

قَلْبُهُ: بمعنی قَلْبُهُ اور تشدید مبالغہ یا کثیر کے

لئے ہے۔ کہا جاتا ہے "أَصْبَحَ يُقَلِّبُ

كَفَّيْهِ" وہ تادام ہونے لگا۔ "وَقَلْبٌ

الْأُمُورِ" اس نے انجام پر نظر ڈالی۔

أَقْلَبَ الشَّيْءُ: اُلٹ دینا..... هُ اللُّهُ إِلَيْهِ

: موت دینا۔ أَقْلَبَ الْعَيْنُ: انگور کے اوپر کا

حصہ خشک ہونا..... الْخُبْزُ: روٹی اُلٹنے کے

قابل ہونا..... الْقَوْمُ: دل کی بیماری میں مبتلا

شدہ اُونٹوں کا مالک ہونا۔

تَقَلَّبَ: پلٹنا..... عَلِيٌّ فَرَأَيْتَهُ: کرو میں لینا۔

فِي الْأُمُورِ: اپنی مرضی سے تصرف کرنا اور کہا

جاتا ہے "أَنَا أَتَقَلَّبُ فِي نِعْمَاتِهِ" میں اس کی

نعمتوں میں اپنی مرضی سے تصرف کرتا

ہوں۔

إِنْقَلَبَ: اُلٹا جانا۔ اوندھانا۔ واپس ہونا۔

الْقَلْبُ: مَصٌّ۔ ول۔ عَقْلٌ۔ قَلْبٌ

الْجَيْشِ: فَوْجٌ كَأُورَمِيَانِيَّ حَصَّةٌ۔ قَلْبٌ كَحُلِّ

شَيْءٍ: گودا۔ خالص۔ کہا جاتا ہے "جَنَّكَ

بِهَذَا الْأَمْرِ قَلْبًا" میں تمہارے پاس محض اس

کام کے لئے آیا۔ قَلْبُ الْعُقُوبِ: منازل

قمر میں سے ایک منزل کا نام۔ ج قَلُوبٌ

أَفْعَالُ الْقُلُوبِ: ظن اور اس کے امثال۔ کہا

جاتا ہے "زَجَلَ قَلْبٌ" یعنی خالص النسب

اور اس میں مذکر و مؤنث واحد جمع سب

برابر ہیں اور بھی کہا جاتا ہے "أَمْرًا قَلْبَةً".

الْقَلْبُ وَالْقَلْبُ وَالْقَلْبُ مِنَ الشَّجَرِ

: درخت کے اندر کا نرم گودا ج أَقْلَابٌ

وَقَلُوبٌ وَقَلْبَةٌ. الْقَلْبُ: کنگن۔ سفید

سانپ۔

الْقَلْبَةُ: سرخی۔

الْقَلْبَةُ: وہ بیماری جس سے بیمار بچھوٹے

پر ترپے۔

الْقَلَابُ: ول کی بیماری۔

الْقَالِبُ: فا۔ سرخ رنگ کی کچی کھجور۔ کہا جاتا

ہے "شَلَّةُ قَالِبِ الْوَلُونِ" ماں کے مخالف

رنگ کی کبری..... وَالْقَالِبُ: سانچہ۔

موزہ۔ جو تباہ کرنے کا فرمہ۔ ج قَوَالِبُ.

الْقَلْبُ: پلٹنے والا۔ بہت اُلٹنے پلٹنے والا۔ کہا

جاتا ہے "زَجَلَ سُؤْلٌ قَلْبٌ" اور "سُؤْلِيٌّ

وَقَلْبِيٌّ" یعنی جلد گر۔ معاملہ کے اُلٹ پھیر کا

ماہر۔

الْقَلُوبُ: بہت اُلٹنے پلٹنے والا.....

وَالْقَلَابُ) بھڑیا۔

الْقَلْبِيُّ: کنواں۔ کنواں بغیر من کا۔ پرانا

کنواں (مذکر اور کبھی مؤنث استعمال کیا جاتا

ہے) ج قَلْبٌ وَقَلْبٌ وَأَقْبَةٌ.

الْقَلُوبُ وَالْقَلُوبُ وَالْقَلْبِيُّ: بھڑیا۔

شیر۔

الْمِقْلَبُ: بھیتی کے لئے زمین کو اُلٹنے پلٹنے کا

ایک آہنی اوزار۔

الْمُنْقَلَبُ: مَصٌّ۔ انقلاب کا اسمِ ظرف۔

لوٹنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "كُحْلٌ إِسْرِيٌّ

يَصْبِرُ إِلَى مُنْقَلَبِهِ".

الْمَقْلُوبَةُ: مَفْعٌ۔ کان۔

قَلْبَتْ (س) قَلْنَا: ہلاک ہونا۔

أَقْلَنَتْ: ہلاک کرنا۔ أَقْلَنْتِ الْمَرْؤَةَ وَكُلَّ أَنْفُسِي: بے اولاد ہونا۔ اور اسم قلت ہے۔ القلت: خوف۔ أَقْلَنْتُهُ فَقَلْبْتُ: اس نے فاسد کیا پس وہ فاسد ہو گیا۔

القلت: چنان کا گڑھا۔ آكله كا گڑھا۔ ج قبالت: کہا جاتا ہے "طَعْنَهُ فِي قَلْبِ خَاصِرَتِهِ" اس نے اُس کے کوکھ کے گڑھے میں نیزہ مارا "وَطَعْنَهُ فِي قَلْبِي تَرْفُوتِيهِ" اس نے اس کی دو ہنسیوں کے بیچ کے گڑھے میں نیزہ مارا۔ عضو کے ہر گڑھے کو قلت: کہتے ہیں۔

وَرَجُلٌ قَلْتُ وَقَلْتُ: کم گوشت۔ ذبا پتلا مرد۔ القلنة: دونوں مونچھوں کے درمیان کا گڑھا۔ شاة قلنة: بکری جس کا دودھ میٹھا نہ ہو۔

الْمَقْلَنَةُ: ہلاکت۔ خوفناک جگہ۔

المقفلات: وہ عورت جس کا بچہ زندہ نہ رہے۔ وہ عورت جس کا ایک بچہ ہو اور پھر اس کے بعد وہ حاملہ نہ ہو۔ ج مقفلت۔

قلبح (س) قَلْبَحًا: زرد دانوں والا ہونا۔

قَلْبَحٌ أَسْنَانُهُ: دانوں کا زرد ہونا۔ صفت مذکر قَلْبَحٌ وَأَقْلَحٌ: صفت مؤنث قَلْبِحَةٌ وَقَلْبَحَاءٌ۔ ج قَلْبَحٌ۔

قَلْبَحُهُ: دانوں کو زردی سے صاف کرنا۔ تَقْلَحُ: میلے پڑے والا ہونا و تَقْلَحُ الْبِلَادُ: قحط کے زمانے میں شہروں میں کمائی تلاش کرنا۔

القلح: بڑھا گدھا۔ القلح والقلاح: زردی جو دانوں پر آ جاتی ہے۔

القلح: میلا کپڑا۔

القلحون: قوت کی تر شاخ۔

الاقلح: زرد دانوں والا۔ گبر یا۔

رَجُلٌ أَقْلَحٌ: تجر پہ کیا ہوا۔

المقلح: تجر پہ کیا ہوا۔

المقلحزة: پستہ قد کی چال۔ المقلحز: مونا

مستکبر۔

القلحاس: مرد بد صورت۔ بد تواریہ۔

أَقْلَحِمُ: الرَّجُلُ: بہت بوڑھا ہونا۔

القلحيم: مستکبر۔ بوڑھا۔

شَيْخٌ قَلْحَامَةٌ: بہت بوڑھا۔

قَلْحٌ (ف) قَلْحًا وَقَلْبِيخًا الشجرة: درخت اکھاڑنا۔

قَلْحٌ (ف) قَلْحًا وَقَلْبِيخًا وَقَلْبِيخًا الْبَعِيرُ: اونٹ کا بڑبڑانا۔

قَلْحُهُ: بالسوط: کوڑا مارنا۔ قَلْحُ النَّبْتِ: نباتات کا سخت ہونا۔

القلح: مص: کھوکھلا۔ نرکل بانس۔ بوڑھا گدھا (..... والفلاخ) بڑے سرو والا۔

قَلْدٌ (ض) قَلْدًا الْحِجْلُ: رسی بننا..... السحيدية: لوہے کو باریک کرنا اور کسی چیز پر موڑنا..... السرجل السيف: تلوار کو حائل کرنا۔

..... السماء في الحوض او الشراب في البطن: جمع کرنا..... الزرع: بھتی سیراب کرنا..... الشئ: موڑنا۔ الحشى فلانا: بخار ہر روز آنا۔

قَلْدَةٌ: السيف: گلے میں تلوار کا پرتلہ ڈالنا۔ القلادة: ہار پہنانا..... العمل: کام سپرد کرنا..... السدين: قرض سونپ دینا۔

قَلْدُ الْبَعِيرِ: اونٹ کی گردن میں کھینچنے کے لئے پٹہ ڈالنا۔

..... فَلَانَا الْقِضَاءَ فِي بَلَدٍ كَذَا: قاضی بنانا۔ کہا جاتا ہے "قَلْدٌ حَيْلُهُ" وہ آزاد چھوڑ دیا گیا "وَقَلْدَةٌ فِي كَذَا" اس نے اُس کی فلاں بات میں بغیر غور و فکر کے پیروی کی۔

أَقْلَدَ الْبَحْرُ عَلَيْهِمْ: غرق کر دینا۔ ڈوبا دینا۔

تَقَلَّدَتِ الْمَرْءَةَ الْقِلَادَةَ: عورت کا ہار پہنانا۔ تَقَلَّدَ الْأَمْرَ: ذمہ دار ہونا۔ برداشت کرنا..... السيف: گلے میں تلوار کا پرتلہ ڈالنا۔

تَقَالَّدَ الْقَوْمُ الْمَاءَ: پانی پر باری باری آنا۔

أَقْتَلَدَ الْمَاءَ: پانی کا چلو لینا۔

أَقْلَوْدُ النعاسُ فلانًا: نیند کا غالب آنا۔

القلند: مص: بیچ دیا ہوا ایشیا ہوا گلیں۔ کہا جاتا ہے "سَوَارٌ قَلْدٌ" رسی میں بیٹی ہوئی رسی۔ ج أقلاود و قلوود۔

القلند: بخار کی باری کا دن۔ چوتھیا بخار کا دن۔ پانی کا حصہ۔ جماعت۔ ہر ہفتہ کی بارش۔ کہا جاتا ہے "سَقْنَا السَّمَاءَ قَلْدًا فِي سَكَلِ أَسْبُوعٍ" یعنی ہم پر ہر ہفتہ میں بارش ہوئی۔ بڑے پیالہ کے مشابہ۔ ج أقلاود کہا جاتا ہے "أَعْظَيْتُهُ قَلْدًا" امری" میں نے اپنے معاملہ کو دور و بست اس کے سپرد کر دیا۔

القلندة: گھی کا چھت۔ کھجور۔ القلندة: دونوں مونچھوں کے درمیان گڑھا۔ القلاد والاقليد: انگوٹھی یا پالی کے گرد لپیٹنے کے لئے پتیل یا تانے کا تار۔

القلادة: ہار۔ مال۔ ج قلايد و قلاود: چھ ستارے جن کو تو س بھی کہتے ہیں۔ قلايد الشعر: اشعار جو نفاست کی بنا پر یاد کئے جائیں اور محفوظ رکھے جائیں۔

أَقْلَادَةُ: امر کی علاقوں کا ایک خوبصورت پودہ جس کو زیب و زینت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

القلود: بہت پانی والا کنواں۔ القليد والمقلود: بنا ہوا۔ القليد والمقلاد: خزانہ۔

التقليد: مص۔ ج تقليد و تقليدات التقليد عند النصارى: نصرانیوں کی سینہ بہ سینہ مذہبی باتیں اور تقلید کا اطلاق اس فرمان شامی پر بھی ہوتا ہے جو پیروی حکم کے لئے جاری ہوتا ہے۔

الاقليد ج اقليد. المقلد ج مقلد. والمقلاد ج مقالييد: گئی۔ کہا جاتا ہے "ضَاعَتْ مَقَالِيدُ أَسْ" اُس کے اوپر اُس کے معاملات ٹھک ہو گئے "وَالْفِي الْيَدِ مَقَالِيدُ الْأُمُورِ" اس نے اپنے امور سے

سونپ دینے الجفَلد: برتن۔ تو برہ۔ پیانہ۔
 ٹیز سے سر کی چھڑی۔
 السُقَلد: مفتح۔ سردار قوم۔ آگے بڑھنے والا
 گھوڑا۔ ہار پہننے کی جگہ۔ موٹھروں پر پرتلہ
 ڈالنے کی جگہ۔ مَقْلَدَاتُ الشَّيْءِ: اشعار جو
 نفاست کی بنا پر یاد کئے جائیں اور محفوظ
 رکھے جائیں۔
 القَلد: ایک کیزا ہے جو پاؤں کو چمٹ جاتا
 ہے اور ان کی موت تک جدا نہیں ہوتا۔
 قَلزوة (نض) قَلزوا: مارنا۔ قَلزوا الارض
 بغصاء: کریدنا۔ بستہجہ: تیر پھینکنا۔
 بقشيبه: اٹنی کرنا۔ الرَجُل: پینا۔ چست
 ہونا۔ کودنا۔ لکڑانا۔ ہ النساء: گھونٹ
 گھونٹ پلانا۔
 (..... قَلزوا وَاَقْلَزَ العَجْرَاءُ: اٹھ دینے
 کے لئے ڈوم کو زمین پر مارنا۔
 تَقَلزوا: چست ہونا۔ الوخل: پہاڑی بکری
 کا دوڑنا۔
 اِقْلَزَ الحَاسِ: گھونٹ گھونٹ لینا۔
 القَلزوا: مِنَ الرَجَالِ: ہلکا پھلکا کمزور مرد۔
 القَلزوا والقَلزوا: سخت تانا بانا جس کو لوہا کاٹ
 نہ سکے۔ مضبوط مرد۔ مَوْنَتُ قَلزوة و قَلزوة:
 قَلزوم و تَقَلزوم الشئ: لگانا۔ تَقَلزوم الرَجُل:
 کبھوں کی وجہ سے مرنا۔
 القَلزوم: کمینہ۔
 القَلزوم: مصر اور مکہ کے درمیان ایک شہر کا نام
 اور اسی کے نام پر بحر قَلزوم ہے۔
 القَلزومة: مہم۔ کمینہ پن۔ شور۔
 قَلَس (ض) قَلَسَا و قَلَسَانَا: کھانا پانی کا
 پیٹ سے منہ تک آنا۔ بہت شراب پینا۔
 نَفْسُه: جی متلانا۔ الحَاسُ
 بالشراب: چمک پڑنا۔ الانساء: بہ پڑنا
 النخل: العسل: شہد بنانا۔
 السحابة بالسدي: جملا پڑنا۔
 الرَجُل: گانے میں ناچنا۔ عمدہ گانا۔
 قَلَس: دف بجانا اور گانا۔ عمدہ کرنا۔
 القوم: گاجا کر اور کھیل کود سے بادشاہوں کا

استقبال کرنا۔..... لة: سینے پر ہاتھ رکھ کر عجز و
 اکساری ظاہر کرنا۔ الرَجُل: ٹوپی پہنانا۔
 تَقَلَس: ٹوپی پہنانا۔
 القَلَس: مہم۔ کشتی و جہاز کی موٹی رستی۔ رج
 قَلوس و اقلان. القَلَس: بدبھمی کی وجہ
 سے کھانا پانی جو منہ تک آئے۔ تے قَلَس
 التحو: ہادل۔
 القاليس: وہ شخص جس کے منہ تک بدبھمی کی
 وجہ سے کھانا پانی آجائے۔
 القلاس: اسم مبالغہ۔ ٹوپی بنانے والا۔ بنحو
 قلاس: زیادہ جھماکے پھینکنے والا۔ الاسندر۔
 القليس: شہد۔ شہد کی کھسی۔
 قَلَسنى الرَجُل: ٹوپی پہنانا۔
 تَقَلَسنى تَقَلَسيا: ٹوپی پہننا۔
 الانقبليس والانقبليس: ایک قسم کی مچھلی جو
 سانپ کے مانند ہوتی ہے۔ بام مچھلی۔
 القلاش: چھوٹا۔ سگڑا ہوا۔
 القلاشة: کوتاہی۔ چھوٹا پن۔
 القلاش والاقلاش: حلیہ گر (دخیل)
 قَلَص (ض) قَلوصا. الرَجُل: کودنا۔
 القوم: اکٹھا ہو کر چلنا۔ القوم عن
 الدار: ہلکا پھلکا ہونا اور اکٹھا ہو کر چلنے کا وقت
 آنا۔
 النساء: پانی کا ختم ہونا۔ البئر: اوپر
 تک چڑھنا۔ الجبل عن كذا: سایہ کا
 سٹ آنا۔ صفت قبالص النوب بعد
 الغسل: کپڑے کا سگڑنا۔ الغلام: جوان
 ہونا۔ الشفة: ہونٹ کا اوپر کو سگڑنا۔
 قَلَصت (ض) قَلوصا و قَلِصت (س)
 قَلَصًا نَفْسُه: جی متلانا۔
 قَلَص قَمِيصُه قَلَصَ هُوَ: سہینا۔ سہنا۔
 لازم و متعدی۔ قَلَصت البدرع: زرہ کا
 چست ہونا۔ الناقة برا کبھا: اونٹنی کا
 سوار کو لے کر تیز دوڑنا۔ دوڑے جانا۔
 القوم: اونٹنیوں پر سوار ہونا۔
 اقلص البعير: کوہان کا کچھ ظاہر ہونا۔
 الناقة: گرمی میں موٹی ہونا۔

تَقَلَص: اکٹھا ہونا۔ سگڑنا۔ قریب قریب
 ہونا۔
 القَلَصَة: پانی جو کنوئیں میں بکثرت جمع ہو کر
 ختم ہو جائے۔ رج قَلَص و قَلَصَات اور کہا
 جاتا ہے "نما وجدث لى البئر الا قَلَصَة
 من الماء" کنوئیں میں میں نے صرف تھوڑا
 سا پانی پایا۔
 القَلوص من الابل: لمبی ٹانگوں والی اونٹنی۔
 جوان اونٹنی یا چلتی ہوئی اونٹنی۔ اونٹنی جس پر
 پہلی مرتبہ سواری کی جائے۔ رج قَلانص
 و قِلاص و قُلص و قُلصان. القَلوص: مادہ
 شتر مرغ۔ شتر مرغ کا مادہ بچہ۔ شوات کا
 بچہ۔ جوان لڑکی۔ جاری نہر جس میں گندگی
 وغیرہ بہہ کر جاتی ہے۔
 القليص: بہت۔ من اليمام: ختم ہونے
 والا پانی۔
 القلاص من اليمام: ختم ہونے والا پانی۔
 اونٹنی کو دوہنے والا۔
 السقلاص: اونٹنی کو دوہنے والا۔ من
 النوق: گرمی کے زمانہ میں موٹی ہونے والی
 اونٹنی۔
 قَرَس مُقَلِص: لمبی ٹانگوں والا گھوڑا۔
 قَلَط (ن) قَلَطًا: بد صورت ہونا۔
 القلط: جن کے بچے۔ شیطان کے بچے۔
 القَلِطى والقَلِيط: مرد خبیث سرکش (.....)
 والقلاط: بہت پست قد۔ آدمی ہو یا عورت یا
 کتا۔
 القَلِيط: میل اور گندگی جمع ہونے کی جگہ۔
 القَلِيطَة: تیز کی ایک قسم۔
 القَلِيط: خسیہ میں سو جن۔
 القَلِيط والقَلِيط: خسیہ میں سو جن والا۔
 القَلِطبان: بیوی کے بارے میں غیرت نہ
 رکھنے والا۔ بھڑوا۔
 قَلَع (ف) قَلَعًا و قَلَعًا و اِقْلَع الشئ: جڑ
 سے اکھیرنا۔ قَلَع الوالى فلاتنا: معزول
 کرنا۔ اِقْلَع الشئ: چھیننا۔
 قَلَع (س) قَلَعًا و قَلَعَة الراجب: سوار کا

زین پر جم کر نہ بیٹھا..... الرَّجُلُ: کندہنی کی وجہ سے کلام کو نہ سمجھتا..... الْمُصَارِعُ: کشتی کے وقت قدم ثابت نہ رہتا۔
 قِيلِعَ قَلْعًا. الرَّجُلُ: حملہ میں ثابت نہ رہنا۔
 زین پر جم کر نہ بیٹھا۔
 أَقْلِعَ عَنْ كَذَا: باز رہنا اور چھوڑنا.....
 السَّمْلَاحُ السَّفِينَةَ: بادبان اٹھانا.....
 أَصْحَابُ السَّفِينَةِ: روانہ ہونا..... الشَّيْءُ: روشن ہونا..... الأَمِيرُ: قلعہ بنانا.....
 الْحُمَى عَنْ فُلَانٍ: بخار کا اتر جانا۔ قرآن مجید میں ہے "يَا سَاءَ الْقَلْبِيُّ" یعنی اسے آسان پارش سے رُک جا۔
 قَالَمًا مُقَالَعَةً: ایک دوسرے کو اُکھیرنا۔
 تَقْلَعُ وَانْقَلَعُ وَاقْتَلَعُ: جڑ سے اُکھڑنا۔ تَقْلَعُ فِي مَشْيِهِ: آگے کو جھکتے ہوئے چلنا۔
 القلْع: جس۔ بسولہ۔ چرواہے کا تھیلا۔ ج اقلع وقلوع وقلوع: قلع الحُمى: بخار اترنے کا دن۔ کہا جاتا ہے "تَرَكْنَهُ فِي قَلْعٍ وَقِلْعٍ وَقِلْعٍ مِنْ حُمَاهُ" میں نے اس کو بخار اترتی ہوئی حالت میں چھوڑا۔ القلع: کان جس کی طرف عمدہ رائگ کو منسوب کرتے تھے کہتے تھے "رِصَاصٌ قَلْعِيٌّ وَقَلْبِيٌّ"
 القلع: بادبان۔ ج قُلُوعٌ وَقِلَاعٌ.
 القلْع: بخار کے اترنے کا دن۔ مردوں کے پہننے کی صددری۔ وہ شخص جو گھوڑے پر اچھی طرح نہ بیٹھ سکے۔
 القلْع: چلنے میں قوی مرد۔
 القلْع: مہس۔ خون۔ کھرٹ جو کھجلی والے کے جسم پر ہو۔ پتھر جو چٹان کے نیچے ہو.....
 مِنَ الْحُمَى: بخار اترنے کا دن۔
 القلْع: جو حملہ میں یازین پر قائم نہ رہ سکے۔ کندہ نہیں جو کلام کو نہ سمجھے۔ کھرٹ والے۔
 وَشَيْخٌ قَلِيعٌ: کھڑے ہونے کی حالت میں آگے کو جھکنے والا بڑھا۔
 القلْعَةُ: قلعہ۔ ج قِلَاعٌ وَقِلُوعٌ. القلْعَةُ: کھجور کا چھوٹا پودہ جو کھجور کی جڑ سے اُکھیرا جائے۔ چرواہے کا تو شدان۔

القَلْعَةُ: قَلْعٌ: کا اسم نوع۔ لہا پھاڑا ہوا نکلوا۔ ج قَلْعٌ.
 القَلْعَةُ: کھرٹ والا کھڑور جو کشتی میں جلد مغلوب ہو جائے ہمیشہ نہ رہنے والا مالِ مقلی کا مالِ درخت سے جو اُکھیرا جائے۔ کہا جاتا ہے "هُوَ عَلَى قَلْعَةٍ" وہ سفر پر ہے "وَمَنْزِلُنَا مَنْزِلٌ قَلْعِيٌّ وَقَلْعِيٌّ وَقَلْعِيٌّ" یعنی ہم مالک نہیں و "هَذَا الْمَنْزِلُ مَنْزِلٌ قَلْعِيٌّ" یعنی جب کوئی صاحبِ عزت آدمی آجاتا ہے تو بیٹھے والے کو ہٹانا یا بار اٹھانا پڑتا ہے۔
 القَلْعَةُ: بواٹیل۔ قلعہ۔ بادل کا پھاڑ جیسا نکلوا۔ ج قَلْعٌ: چٹان جو پہاڑ سے جدا ہوگئی ہو اور دشوار گزار ہو۔ ج قِلَاعٌ وَقِلْعٌ.
 القلْعَةُ: کھرٹ والا۔
 القِلَاعُ: جو خشک ہونے کے بعد پھٹی ہوئی مٹی پھنسیاں۔ جو منہ یا زبان پر ہوں۔ واحد قِلَاعَةٌ القِلَاعُ: مٹی جو خشک ہونے کے بعد پھٹ جائے اور اس کے نیچے سانپ کی چھتری ہو۔ قِلَاعُ الأذُنِ: کان کی جڑ میں شگاف کہ جس سے پیپ وغیرہ نکلے۔
 القِلَاعَةُ: پتھر یا ڈھیلا جو پھینکنے کے لئے زمین سے اُکھیرا جائے۔ کہا جاتا ہے "زَيْمِي بِقِلَاعَةٍ" یعنی لا جواب کر دیا گیا۔
 القِلَاعَةُ: کشتی و جہاز کا بادبان۔
 القِلَاعُ: وہ شخص جو حملہ میں یازین پر قائم نہ رہ سکے۔ بڑا جھوٹا۔ داڑھ اُکھیرنے والا۔ بادشاہوں کے پاس چٹلی کھانے والا۔ سپاہی۔ سپہ سالار۔ کفن چور۔
 القُلُوعُ: بڑی اونٹنی۔ کمان جو کھینچنے میں الٹ جائے۔ ج قَلْعٌ.
 إقْلَاعُ الْحُمَى وَمَقْلَعُهَا: بخار کا اترنا۔
 المَقْلَعُ: پتھر اُکھیرنے کی جگہ۔ ج مَقَالِعٌ. المِقْلَاعُ: گوپچن۔ ج مَقَالِيعٌ.
 إقْلَعْدُ الشَّعْرُ: بال کا سخت گھٹکھریا لے ہونا۔
 إقْلَعْدُ الشَّعْرُ: بال کا سخت گھٹکھریا لے ہونا..... فُلَانٌ: خود سری کے ساتھ جانا۔
 إقْلَعْفُ الشَّيْءِ: ہنسنا..... أَنَابِلُ فُلَانٍ: سردی

یا بڑھا پے کی وجہ سے جھری دار ہونا۔
 قَلْعَطٌ وَتَقْلَعَطٌ: زیادہ میلا کرنا اور میلا ہونا۔
 الْمُتَقْلَعَطُ: میلا اور کچھوس آدمی۔
 القَلْعَطَةُ: بالوں کا سخت گھٹکھری یا لاپن۔
 قَلَفٌ (ض) قَلْفًا الشَّجَرَةَ: درخت سے چھال اُتارنا..... الشَّيْءُ: پلٹنا.....
 وَاقْتَلَفَ الظَّفْرُ: جڑ سے کاٹ لینا۔ قَلَفَ العَصِيْرُ: جھاگ لانا۔
 قَلَفٌ (ن) قَلْفًا. القَلْفَةُ: کاٹنا۔
 قَلَفٌ (ض) قَلْفًا وَقَلْفَةُ الدِّينِ: منکے کے سرے پر کی مٹی چھڑانا..... وَقَلَفٌ الشَّيْءُ: کشتی کے تختوں کو درخت خرما کی چھال سے جوڑنا اور ان کے درمیان تارکول ڈالنا۔ اسم القِلَافَةِ: ہے وَقَلَفٌ الجزء: بکلاے بکلاے کرنا۔
 قَلِفٌ (س) قَلْفًا الصَّيْبُ: بے خستہ ہونا یا عضو تاسل کی کھال کا بڑا ہونا۔ صفت أَقْلَفٌ.
 تَقْلَفُ القَشْرِ عَنِ الشَّجَرَةِ: درخت سے چھال کا اترنا۔
 انْقَلَبَتِ السُّرَّةُ: ناف کا موٹائی کی وجہ سے لوٹ جانا۔
 القَلْفُ: درخت کی چھال۔ واحد قَلْفَةٌ: سخت جگہ۔
 القَلْفَةُ: ناخن جڑ سے کٹا ہوا۔
 القَلْفَةُ وَالقَلْفَةُ: عضو تاسل کی کھال۔ ج قَلْفٌ.
 القَلْفَةُ مِنَ الشَّفَاةِ: ہونٹ جس میں موٹائی ہو۔
 القِلَافَةُ: درخت وغیرہ کی چھال۔
 القَلْبِيفُ ج قَلْفٌ وَالقَلْبِيفَةُ ج قَلْبِيفٌ وَالْمَقْلُوفَةُ ج مَقْلُوفَاتٌ: کھجور رکھنے کا بڑا ٹوکرا۔
 القَلْبِيفُ وَالْمَقْلُوفُ: منکا جس کے سرے سے مٹی چھڑا دی گئی ہو۔ القَلْبِيفُ: خشک میوہ۔ دریائی کھجور جس کا چھلکا اُتر گیا ہو۔

مجموعہ کا بڑا ٹوکرا۔ واحد قلیفۃ۔

الاقْلَف: بے خندہ۔ عضو تناسل کی بڑی کھال والا۔ مؤنث قلفاء ج قْلَف: کہا جاتا ہے "هُوَ اَقْلَفُ الْقَلْبِ" وہ اچھی باتوں کو نہیں قبول کرتا "عام اَقْلَف" سرسبز سال "عیش اَقْلَف" خوش حال زندگی۔

السَّقْلِف: مجھور سے کھٹلی جدا کرنا اور برتن میں ذخیرہ کرنا۔

قْلَفَخ: الطعام: سب کچھ کھالینا۔

تَقْلَفَعُ عَنْهُ الشَّيْءُ: پھیل جانا۔

القِلْفَعُ والقِلْفَعُ: خشک کچھڑ کا پھٹا ہوا ٹکڑا۔ لوہے کے ذرات جوڑ جاتے وقت گریں۔

القِلْفَعَةُ: سانپ کی چھتری۔ زمین کی مٹی جو سانپ کی چھتری کے اُگنے سے ہٹ جائے۔ اونٹ کی کھال پر چھال کی مانند داغ۔

قَلْبِقُ (س) قَلْفَا: مضطرب ہونا۔ بے قرار ہونا۔ صفت مذکر قَلْبِقُ ومُقَلِّقُ: صفت مؤنث قَلْفَقَةٌ ومُقَلِّقَةٌ۔

قَلِقُ (ن) قَلِقًا الشَّيْءُ: حرکت دینا۔

أَقْلَفَةُ: بے قرار کرنا۔ أَقْلَقُ الشَّيْءُ مِنْ مَكَانِهِ: حرکت دینا۔ الْقَوْمُ السَّيُوفُ فِي الْعَيْدِ: آسانی کے لئے تلوار کو میان ہی میں حرکت دینا۔

القَلْفَاسُ: اردو۔

قَلْقَلُ قَلْقَلَةً: آواز نکالنا (.....) قَلْقَلَةً وَقَلْقَلًا وَقَلْقَالًا الشَّيْءُ: حرکت دینا۔ الْحَزْنُ وَمَعَهُ: آنسو بہانا۔ فِي الْأَرْضِ: سفر کرنا۔

تَقْلَقَلُ: متحرک ہونا۔ ہلکا ہونا اور تیز دوڑنا۔ فِي الْبِلَادِ: ملک میں پھرنا۔

القَلْقَلُ والقَلْقَالَانِ: ایک درخت ہے جو اتر کے مشابہ ہوتا ہے اور جس کا پھل کالے رنگ کا چمکا گول کالی مرج کے برابر ہوتا ہے۔

حروف القَلْقَلَةِ: پانچ حروف ہیں۔

ب ج د ط ق۔

القَلْقَالُ: ہمیشہ سفر کرنے والا۔

القَلْقَالُ والقَلْقَالُ: پھر تیار مددگار۔ القَلْقَالُ: سفر میں ہلکا پھلکا۔

قَلَمَ (ض) قَلَمْنَا وَقَلَمَ الشَّيْءُ: کاٹنا..... الظَّفَرُ: ناخن تراشنا۔ قَلَمَ: تھوڑا تھوڑا کاٹنا.....

القَلَمُ: قلم۔ قلم کا اطلاق بن جانے کے بعد سے بننے سے پہلے قَضَبَةٌ اور بسراعہ: کہتے ہیں۔

القَلَمُ: جوئے کا تیز۔ تیر جو جواریوں کے درمیان گھمایا جاتا ہے۔ ج اَقْلَامٌ وقِلَامٌ۔

القَالِمُ: نا۔ جس کے بیوی نہ ہو۔ ج قَلَمَةٌ۔ القَلَامَةُ: تراشہ۔ قَلَامَةُ الظَّفَرِ: ناخن کا تراشہ۔ اور اس سے گھٹیا اور حقیر چیز کی تشبیہ دی جاتی ہے۔

الإقْلِيمُ: ملک۔ صوبہ۔ ربع سکون کا ساتواں حصہ۔ ج اَقْلِيمٌ (ذیل)۔

الأقْلِيمِيُّ: نظریہ القلیمہ کو ماننے والا۔ علاقائی سطح پر لوگوں کے اجتماع کا نظریہ۔

المَقْلَمَةُ: قلم دان۔ ج مقالم۔

مَقَالِمُ الرُّوحِ: نیزے کی گریں۔

المُقْلَمَةُ: بیوہ عورت اور کہا جاتا ہے "سازت الف مقلمة" یعنی ہزار سپاہیوں کی ہتھیار بند فوج روانہ ہوئی۔ کہا جاتا ہے "قَلَانٌ مَقْلُومٌ الظَّفَرُ وَمَقْلَمُ الظَّفَرِ" یعنی ضعیف و ذلیل ہے۔

المِقْلَامُ: پیٹھی۔

القَلْمَسُ: بہت پانی والا کنواں۔ بہت فیاض۔ دُور اندیش۔ ہوشیار۔ غیر معروف۔

قَلَمْعٌ رَاسَةٌ: سر پر مار کر جدا کرنا۔ موٹھا۔..... الشَّيْءُ: جڑ سے اکھیڑنا۔

القَلْمَعَةُ: مص۔ کہینے لوگ۔ قَلْنَسَةٌ: ٹوٹی پہناتا۔ قَلْنَسُ الشَّيْءِ: چھپانا۔

..... الرُّجُلُ: سینہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا۔ تَقْلَسُ: ٹوٹی پہناتا۔

القَلْنَسُوةُ والقَلْنَسِيَّةُ: ٹوٹی ج قَلَابَسُ

وقَلَابَسُ وقَلَابَسٌ وقَلَابَسٌ: اور لُصْبِ قَلْبَسِيَّةٌ وقَلْبَسِيَّةٌ: اور یادری جس ٹوٹی کو استعمال کرتے ہیں اس کو عوام قَلْبَسُوةٌ: کہتے ہیں۔

قَلَابَسٌ مَقْلُوبٌ قَلْبَسًا: اللَحْمُ وَعَيْرُهُ: گوشت کڑا ہی میں بھونا۔ صفت فاعلی۔ قَلَاءٌ: اور صفت مفعولی مَقْلُوبٌ..... الإِبِلُ: اوتوں کو ہانکنا۔

..... القَلَّةُ وبالْقَلَّةِ: گلی ڈنڈا کھیلنا (.....) قَلَاءٌ وقَلَاءٌ الرُّجُلُ: بغض رکھنا۔

تَقَلَّى إِلَيْهِ: نفرت کرنا۔ بغض ظاہر کرنا..... علی قرابشہ: مضطرب ہونا۔ تملانا۔

تَقَالَى الرُّجُلَانِ: ایک دوسرے سے بغض رکھنا۔ کہا جاتا ہے "بَيْنَهُمْ تَقَالٍ" ان کے درمیان بغض ہے۔

إِقْلَبُوا لِي الْإِقْبِلَاءَ: کوچ کرنا۔ بے آرام ہونا۔ سکرنا۔ جگہ سے علیحدہ ہونا..... فِى الْجَبَلِ: پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر جھانکنا.....

الطَّائِرُ: پرندہ کا اڑنے میں بلند ہونا۔ درخت کے اوپر کے حصہ پر اترنا.....: پینچہ پر سوار ہونا۔

القَلْوُ: ہلکا پھلکا۔ جوان ہلکا گدھا۔

القَلَّةُ ج قَلَاتٌ وقَلُونٌ وقَلُونٌ (المَقْلَى) والقَلَاءُ: گلی ڈنڈا۔ القَلَّةُ: ہرن کے پھسارنے کے لئے ایک قسم کا پھندا۔

القَلْوِيَّةُ: جانور جو اپنے سوار کو لے کر سب سے آگے بڑھ جائے۔

القَلْوَلِيُّ: بلند پرواز پرندہ۔

قَلِي يَقْلِي قَلْبًا اللَّحْمُ وغيره: گوشت بھوننا صفت فاعلی قَلَاءٌ: صفت مفعولی مَقْلَى.....

قَلَانًا: سر پر مارنا (.....) الرُّجُلُ وقَلْبُهُ يَقْلَاهُ قَلْبِي وقَلَاءٌ ومَقْلِيَّةٌ: بغض رکھنا۔ صفت فاعلی قَالٌ: اور صفت مفعولی مَقْلَى.

القَلِي والقَلِي: بچی۔

القَلْسِيُّ: پہاڑوں کی چوٹیوں۔ مُردوں کی کھوپڑیاں۔ واحد قَلَسَةٌ.

القَلَاءُ: کڑا ہی بنانے والا۔ کڑا ہی میں

تَقَمَّرُ: چاندنی رات میں شکار کے لئے نکلتا۔
..... الرَّجُلُ: جوئے میں غالب آنا۔ چاندنی
رات میں آنا..... الطَّيْرُ وَالطَّيَّابَةُ: پرندوں
یا ہرنیوں کا چاند کی روشنی میں شکار کرنا.....
الطَّيْرُ: پرندہ کو شکار کے لئے رات میں
آگ سے چندھا کر دینا۔

تَقَامَرُ الْقَوْمُ: باہم جوا کھیلنا۔
إِقْمَارُ الْقَمِيرِ: سفید ہونا۔ چاند کے رنگ کا
ہونا۔

القَمَرُ: چاند۔ تین رات کے بعد آخر ماہ تک
قمر کہتے ہیں اور اس سے پہلے ہلال ج
أَقْمَارُ الْقَمَرَانِ: آفتاب و ماہتاب۔ أَقْمَارُ
الْعِلْمِ وَشُمُوسُهُ: علماء اور کہا گیا ہے "إِسْتَرْ
عَيْنَهُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ" یعنی میں نے اس کو
مہلت دی۔

القَمْرَةُ: سبزی مائل۔ سفید رنگ۔
السَّمَاءُ الْقَمِيرُ: بہت پانی۔ لَيْلَةُ قَمْرَةَ
: چاندنی رات۔

الْحُرُوفُ الْقَمْرِيَّةُ: چودہ حروف جن کے
ساتھ تلفظ مہل لام پڑھا جاتا ہے جسے الْقَمَرُ
السُّمْرِيُّ: فاختہ کی مانند ایک مشہور پرندہ
مَوْثُ قَمْرِيَّةٌ ج قَمْرُ وَقَمَارِيٌّ.

الْقَمْرِيَّةُ: زمین پر پھیلنے والی بوٹی جس کے
پھولوں کے بیج چاند کی طرح ہوتے ہیں
زیب و زینت کے لئے لگائی جاتی ہے۔
امریکہ کے علاقہ میں پائی جاتی ہے۔

الْقَمَارُ: مہس۔ جوا۔

القَمِيرُ: جواہری۔ کہا جاتا ہے "هُوَ
قَمِيرٌ" وہ جوئے میں تمہارا ساتھی ہے ج
أَقْمَارُ: جیسے نصیر و انصار۔

قَمْرَةُ الْبُرُكْبُ: (عِنْدَ الْمَلَاحِيْنِ): بحری
جہاز کا کرہ۔

الاقمر: سبزی مائل سفید رنگ والا۔ سفید
وَجْهَ اَقْمَرٍ: چاند کے مشابہہ چہرہ۔ سَحَابٌ
اَقْمَرٌ: پانی سے بھرا ہوا بدل۔

القَمْرَاءُ: الاقمر: کامونٹ۔ چاندنی۔
لَيْلَةُ مُقْمِرٍ وَمُقْمِرَةٌ: چاندنی رات۔ عرب

کے امثال میں سے ہے "أَنْشَطُ مِنْ طَبْطَبِي
مُقْمِرٌ" بیان کیا گیا ہے کہ چاندنی میں ہرن کو
نشاط حاصل ہوتا ہے اور وہ کھیلتا کودتا ہے اور
کبھی دھوکے میں آ جاتا ہے اور درندہ شکار
کر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے دوسری مثال میں
کہا گیا ہے "أَعْرُ مِنْ طَبْطَبِي مُقْمِرٌ".

المَقْمُورُ: مفتح۔ بُرَائِي۔ ناپسندیدہ بات اور
اسی سے مثال ہے "وَضَعْتُ يَدِي بَيْنَ
إِحْدَى مَقْمُورَتَيْنِ" دو بُرائیوں میں سے
ایک بُرائی میں نے ہاتھ ڈالا۔

قَمَسَ (ن ض) الشَّى: جمع کرنا.....
الشَّى.....: انگلیوں کے کناروں سے پکڑنا۔

أَقْمَرَ الرَّجُلُ: بے کار چیزوں کا ذخیرہ کرنا۔
القَمَزُ: بے کار مال۔

القَمْرَةُ: سمجھور کی ایک مٹھی۔ نباتات کا گھونٹ
جس میں دانہ نہ ہو۔ ج قَمَزُ:

قَمَسَهُ (ن ض) قَمَسًا وَأَقْمَسَهُ فِي
الْمَاءِ: پانی میں غوطہ دینا۔ أَقْمَسَ الْكُوكِبُ

: ستارے کا غروب ہونا..... قَمَسَتْ الذَّلُؤُ
فِي الْمَاءِ: ڈول کا ڈوب جانا۔ قَمَسَ بِهِ فِي

الْبُرِّ: کنوئیں میں بھینکنا۔
الْوَلَدُ فِي الْبَطْنِ: بچے کا پیٹ میں حرکت

کرنا۔
قَمَسَ (ن ض) قَمَسًا وَقَمُوسًا وَأَقْمَسَ

فِي الْمَاءِ: پانی میں غوطہ لگانا۔ أَقْمَسَ
الْكُوكِبُ: ستارہ کا غروب ہونا۔ أَقْمَسَ

فِي الرَّيْحَةِ: کنوئیں میں کود پڑنا۔
قَمَسَ: الرَّجُلُ: اُونٹوں کو سیراب کرنا۔

قَامَسَهُ قِمَاسًا وَمَقَامَسَةً: غوطہ لگانے میں
مقابلہ کرنا۔ مناظرہ کرنا۔ مباحثہ کرنا۔ کہا گیا

ہے "هُوَ يُقَامِسُ حُوتًا" وہ چھلی سے غوطہ
لگانے میں مقابلہ کرتا ہے یعنی اپنے سے

زیادہ علم والے سے مباحثہ کرتا ہے۔
تَقَامَسُوا: فِي الْمَاءِ: باہم غوطہ زنی کرنا۔

القَمَاسُ: غوطہ خور۔
القَمَامُوسُ: سمندر۔ سمندر کا گہرا حصہ۔ ج

قَوَامِيسُ:

القَمَامُوسُ: علامہ محمد الدین فیروز آبادی کی
علم لغت میں ایک مشہور کتاب زمانہ موجودہ
میں ہر لغت کی کتاب کو قَمَامُوسُ: کہتے ہیں۔
القَمَاسُ: کنوئیں میں پانی کی زیادتی۔

القَمِيسُ ج قَمَامِيسُ القَمِيسُ: سمندر۔
القَمُوسُ: کنواں جس میں پانی زیادہ ہونے

کی وجہ سے ڈول ڈوب جائے۔
القَمْسُ: مرد شریف ج قَمَاسُ وَقَمَامِيسَةُ.

القَمُوسُ: امیر۔ سمندر کا گہرا حصہ۔ ج
قَوَامِيسُ. القَوَامِيسُ: مصیبتیں۔

قَمَشَ (ن ض) قَمَشًا وَقَمَشَ الْقَمَاشُ
: ادھر ادھر سے جمع کرنا۔

تَقَمَّشَ: جو کچھ ملے اس کو کھانا اگرچہ
معمولی ہو۔

إِقْتَمَشَ. الْقَمَاشُ: ادھر ادھر سے کھانا۔
القَمَاشُ: ردی اور گھٹیا چیزیں۔ قَمَاشُ

النَّاسِ: رذیل لوگ۔ قَمَاشُ النَّيْبِ: گھر کا
سامان۔ ج أَقْمِشَهُ.

القَمَشُ: مہس۔ ردی چیز۔
القَمَاشُ: سامان بیچنے والا۔

قَمَصَ (ن ض) قَمَاصًا وَقَمَاصًا وَقَمَصًا
الْفَرَسُ وَغَيْرُهُ: گھوڑے کا اگلے دونوں

ناگوں کو اکٹھا ہی اٹھانا اور اکٹھا ہی رکھنا.....
الْعَيْرُ: گدھے کا کودنا اور بھاگنا.....

قَمَصًا مِنْهُ: نفرت کرنا۔ اعراض کرنا.....
النَّاقَةُ بِالرَّذِيفِ: اُونٹنی کا اچھلتے ہوئے لے

جانا..... وَقَمَصَ الْبَحْرُ بِالسُّوَيْبَةِ: موج
سے حرکت دینا۔ وَقَمَصَهُ: قمیص پہنانا۔

قَمَصَ الْقَوْبَ: کرتا قطع کرنا۔
تَقَمَّصَ: کرتا پہنانا اور استعارہ کی بنا پر کہا

جاتا ہے "تَقَمَّصَ الْبَوْلَايَةَ وَالْإِمَارَةَ
وَتَقَمَّصَ لِبَاسَ الْعِزِّ" تَقَمَّصَتِ الرُّوحُ

: ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہونا۔
القَمَصُ: اٹلے سے نکلے ہوئے ٹڈی کے

تازہ بچے۔ کھیاں یا مچھر جو پانی کے اوپر
اڑتے ہیں۔ واحد قَمَصَةٌ.

القَمَاصُ: مہس۔ قَلَقُ:

القَمِيصُ: کرتا (مذکورہ نمونہ) ج اَقْمِصَة
وَقَمِيصٌ وَقَمِيصَانٌ. القَمِيصُ: نوزائیدہ
بچے کے اوپر کی جھلی۔ دل کا غلاف۔ کہا جاتا
ہے "هتک الخوف قميص قلبه" خوف
نے اس کے دل کے غلاف کو پھاڑ دیا۔
القَمِيصُ والقَمِيصُ: وہ جانور جو اپنے
سوار کو لے کر اچھلے۔ القَمِيصُ: شیر۔ بے
آرام جس کو قرار نہ ہو۔ کہا جاتا ہے "فَلانٌ
قَمِيصُ الخنجره" فلاں بڑا جھوٹا ہے۔
قَمَطَةٌ (نض) قَمَطًا وَقَمَطَةٌ: گہوارہ میں
چھوٹے بچے کے ہاتھ پاؤں باندھ دینا.....
الابِلُ: اونٹوں کو قطار میں کرنا..... طَعِمَ
الشئُ: چکھنا..... الشئُ: لینا..... قَمَطَ
الديكُ: مرغ کا جھتی کرنا..... المَرأةُ:
عورت سے جماع کرنا۔

القَمِطُ: رتی جس سے ہاتھ پاؤں
باندھیں۔ چوڑا کپڑا جس سے گہوارہ میں
بچے کو پلٹ دیں۔ ج قَمِطٌ (.....)
والقَمِطُ: رتی جس سے بکری کی ٹانگوں کو
ذبح کرنے کے لئے باندھیں۔
عَامٌ قَمِيطٌ: پورا سال۔ کہا جاتا ہے "اَقْمِثْ
عندهُ حَوْلًا قَمِيطًا او شَهْرًا قَمِيطًا" میں
اس کے پاس ایک سال کامل یا ایک مہینہ
کامل ٹھہرا۔

القَمِطُ: چور۔ بچوں کو گہوارہ میں باندھنے
کے لئے پٹی بنانے والا۔
القَمِطُ: بہت سے چور۔

قَمَطَرٌ قَمَطَرَةٌ الشئُ: جمع ہونا..... الشئُ:
جمع کرنا..... القَمِطَةُ: شک کو بندھنے سے
باندھنا۔ شک کو بھرتا..... العَدُوُّ: دشمن کا
بھاگنا..... قَمَطَرُ الجاريةِ: جماع کرنا۔
اَقْمَطَرٌ: منتشر ہونا۔ سکرنا..... لِلشئِ: آمادہ
ہونا..... اليَوْمِ: دن کا سخت ہونا..... عَلَيْهِ
الشئُ: بھیڑ ہونا۔

القَمَطَرُ والقَمَطَرُ: بست۔ جزو دان۔ بحرین
کے پاؤں پھسانے کی لکڑی۔ پستہ قدمونا مرد
مذکورہ نمونہ اور امراة قَمَطَرَةٌ کہتے ہیں۔ ج

قَمَاطِرُ القَمَطَرِ: شکر دانی۔

القَمَاطِرُ والقَمَطَرِيُّ: سخت دن یا سخت
لڑائی۔

القَمَطَرِيُّ: پست قدمونا مرد۔ اکٹھی چال۔
قَمَعَةٌ (ف) قَمَعًا: آنکس سے مارنا۔
ارادہ سے ہٹا دینا۔ خوار و ذلیل کرنا۔ قَمَعُ
القَبْرِيَّةِ: باہر کی طرف منک کے منہ کو موڑنا
قَمَعُ فِي الشئِ: داخل ہونا۔

الكُتْبُ: عمدہ عمدہ چھانٹ لینا۔ قَمَعَتِ
السَّوأةُ بَنانها بِالْحِجَاءِ: عورت کا پردوں کو
مہندی سے رنگنا..... ه: سر کے بالائی حصہ پر
مارنا..... لَبْرُدُ النِّبَاتِ: سردی کا نباتات کو
جلا دینا..... مَا فِي السَّقَاءِ: ڈگڈگا کے پینا
..... الشَّرَابُ: آسانی سے حلق سے اترنا
..... سَمَعَهُ لِفَلانٍ: خاموش ہونا.....
الوَطْبُ: قیف لگانا۔

قَمِعَتْ (س) قَمِعًا عَيْنُهُ: گوشہ چشم میں
ورم والی ہونا۔ صفت قَمِيعَةٌ..... القَمِيسُ:
ایک سونے گھنے والا ہونا..... عَرَفُ قُوبُ
السَّفَرِيسُ: ایزی کے سرے کا موٹا ہونا.....
الطَّبِيَّةُ: ہرن کی ناک میں بھی داخل ہونا اور
اس کی وجہ سے اس کا سر ہلانا..... فُلانٌ
الدَّوَاءُ: دوا پھا لگانا۔

قَمِعَ البُسْرَةُ وَنَحْوَهَا: کھجور وغیرہ کی پلیدی
کو ڈور کرنا۔ قَمِعَتِ البُسْرَةُ وَنَحْوَهَا:
کھجور وغیرہ کی پلیدی کا ڈور ہونا۔

اَقْمَعَهُ: ذلیل و خوار کرنا۔ رد کرنا۔ دفع کرنا۔
بھانا۔ تم کہو گے "اَقْمَعْتُهُ" یعنی فلاں میرے
پاس آیا میں نے اس کو ہٹا دیا۔

تَقَمَعُ: تمہیر ہونا مدہوش ہونا۔ تہما۔ بیٹھنا۔
ذلیل ہونا..... السَّبَابُ: کبھی مارنا۔ تم کہو
گے تَرَكْتُهُ يَتَقَمَعُ: میں نے اس کو کبھی مارنا
ہوا چھوڑا..... واقْتَمَعُ الشئُ: چننا اور کہا
گیا ہے "اَقْمَعُ مَا فِي الاِنَاءِ" یعنی برتن میں
جو کچھ تھا سب پی گیا۔

اِنْقَمَعُ: خوار و ذلیل ہونا۔ پوشیدہ مکان میں
داخل ہونا..... الرَّجُلُ: تہما بیٹھنا۔

القَمْعُ والقَمِيعُ والقَمِيعُ: قیف۔ ج
اَقْمَاعُ: کھجور وغیرہ کے نیچے کی پینڈی اور
تھپیہ کی بنا پر انگشتانہ کو بھی قَمْعُ کہتے ہیں۔
ج قَمُوعُ.

القَمْعُ: آنکھ کے گوشوں میں ورم یا سرخی۔
گھوڑے کے گھنے میں یا ایزی میں موٹا پا۔
حلق کا کنارہ۔ سانس کی نالی کا کنارہ۔ نرخرہ
کی ابھری ہوئی ہڈی۔

الاقْمَعُ: مؤنث قَمْعَاءُ ج قَمْعُ
والقَمُوعُ: وہ شخص جس کی آنکھ کے گوشے
میں ورم یا سرخی ہو الاقْمَعُ مِنَ الخَيْلِ: گھوڑا
جس کے ایک گھنے میں موٹا ہوا۔

القَمِيعَةُ: کوہان کی چوٹی۔ آنکھ کا زخم۔ حلق کا
کنارہ۔ قَمِيعَةُ الذَّنْبِ: ذم کا کنارہ۔ قَمِيعَةُ
الشئِ: عمدہ چیز۔ ج قَمَعُ. القَمِيعَةُ: کبھی جو
سخت گرمی میں اونٹوں اور ہرنوں کو لگ جاتی
ہے۔ ج مقامع.

القَمِيعُ: مِنَ الخَيْلِ: گھوڑا جس کے ایک
گھنے میں موٹا ہوا۔ سَنَامٌ قَمِيعٌ: بڑا کوہان۔
حَرْفٌ قَمِيعٌ: پھنسیوں والی آنکھ۔

القَمِيعَةُ: توشہ دان وغیرہ کا سر بند۔ بہترین
مال ج قَمِيعُ.

القَمْعُ والقَمِيعُ والقَمِيعُ: قیف (برتن کے
منہ پر رکھ کر مائع چیز بھرنے کا آلہ)۔

القَمِيعِيَّةُ: یورپ برازیل اور ایشیاء کے
ممالک میں پایا جانے والا ایک پھول جو کہ
خوبصورت ہوتا ہے اور اس میں زہریلا مواد
ہوتا ہے۔ اس سے پیشاب آور اور مسکن
دوا جتالین حاصل کی جاتی ہے۔ ایسے ہی
دل کے مریضوں کو دی جاتی ہے۔

القَمِيعَةُ: مِنَ الدَّوَابِّ: دونوں کانوں کے
درمیان ابھرا ہوا حصہ۔ دم کا سران قَمِيعُ.

القَمِيعَةُ: آنکس۔ لکڑی یا لوہا جس سے
انسان کو مارا جائے۔ ج مقامع.

القَمِيعُ: مفتح۔ مغلوب۔ تخرمزدہ..... مِنَ
الصَّالِّ: چننا ہوا مال۔

قَمَعَلٌ قَمَعَلَةٌ البَثُّ: نباتات کا غلاف لگانا یا

ظکوٰۃ لکنا..... الرُّجُلُ: سردار قوم ہوتا۔
 القِمَمَالُ: سردار قوم: چرواہوں کا سردار۔
 القَمْعَلُ: تنگ منہ کی ہانڈی.....
 والقَمْعُولُ: بڑا پیالہ ج قَمَاعِلُ وقَمَاعِيلُ.
 القَمْعُوْلَةُ: نباتات کا خلاف یا پھول کی کلی۔
 کوئیل۔ سر کے اندر گھسا ج قَمَاعِيلُ.
 قَمَمَقَمَ قَمَمَقَمَةً مَا عَلَى الْمَائِدَةِ: دسترخوان
 کے پیچے ہوئے کو جمع کرنا۔
 تَقَعَقَمَ: بہت پانی میں گھسا یہاں تک کہ
 ڈوب جانا۔ الشُّي: چڑھنا۔
 القَمْمَقُمُ: حلق کی نالی۔ گھرا۔ پانی گرم کرنے
 کے لئے تانبے کا برتن۔ عطر فروش کا برتن۔
 گلاب پاش۔
 القَمْمَقَامُ والقَمْمَقَامُ والقَمْمَقَامُ: القَمْمَقَامُ:
 بڑی تعداد میں سردار یا سردار کا گہرا حصہ۔ چھوٹی
 چھڑیاں۔ ایک قسم کی جوئیں۔ اس کا واحد
 قَمْمَقَامَةٌ. القَمْمَقَامُ والقَمْمَقَامُ والقَمْمَقَامُ: بڑا
 فیاض سردار ج قَمَامِقِمْ وقَمَامِقِمَةُ القَمْمَقَامُ
 : امر عظیم۔ بڑا معاملہ۔ رَجُلٌ قَمْمَقَامٌ: کمینہ جو
 ردی اور گھٹیا قسم کے کھانے پر راضی ہو
 جائے۔ القَمَامِقِمْ: ماہِ تمبر کے آخری بارہ
 دن جن سے آنے والے سال کے ہر مہینے
 کی ہوا کا پتہ لگایا جائے۔
 القَمْمَقِمْ: پتہ۔ خشک جگہ سمجھو۔
 القَمْمَقَمَةُ: بکڑی کا پیالہ۔ لوٹا۔
 قَمِيلٌ (س) قَمِلًا القَوْمُ: زیادہ تعداد ہونا۔
 سرسبزی و شادابی والا ہونا..... قَلَانٌ لِّلْأَعْرَى
 کے بعد مونا ہونا..... رَأْسُهُ: سر میں جوں ہونا
 یا بہت جوں ہونا۔ صفت قَمِيلٌ بَطْنُهُ: توند
 لکنا۔
 قَمِيلٌ وَقَمِلٌ المَرَعِيُّ: چراگاہ کا اگنا اور
 سیاہ ہونا۔
 تَقَمَّلَ الرَّجُلُ: کچھ موناٹی شروع ہونا۔
 القَمْلُ: جو واحد قَمْلَةٌ: کہا جاتا ہے "ذُبْ
 قَمْلَةٌ" یعنی مونا ہوا۔ قَمْلٌ قَرِيْشٌ: دانہ
 صنوبر۔
 القَمَالُ: جوں۔

القَمْلُ: چھڑی۔ چھوٹی چھوٹی۔ واحد قَمْلَةٌ.
 القَمْمَلُ: فقیری کے بعد تو انگر۔
 تَقَمَّنَ الأَمْرُ: قصد کرنا..... الشُّي: پکانے
 کے قریب ہونا۔
 القَمْنُ: لائق۔ قریب۔ مناسب۔ یہی لفظ
 واحد شتہ جمع مذکر مؤنث سب کے لئے ہے
 اور کہا جاتا ہے "هَذَا المَنْزِلُ لَكَ مَوْطِنٌ
 قَمْنٌ" یعنی یہ مکان اس لائق ہے کہ تم اس
 میں رہو۔ "وَجِئْتُ بِالْحَدِيثِ عَلَى
 قَمْنِهِ" یعنی میں نے اس کی روشنی پر بیان
 کیا۔
 القَمِينُ: لائق۔ سزاوار۔ حمام کی بھٹی۔
 قَمِينٌ اور قَمِيْنٌ کے ساتھ یا یامن یا لام کا
 استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے "هُوَ قَمِيْنٌ
 وَقَمِيْنٌ بَكْدًا. وَقَمِيْنٌ وَقَمِيْنٌ مِنْ كَذَا
 وَلِكَذَا" ج قَمِيْنَاءُ وَقَمِيْنُونَ مؤنث قَمِيْنَةٌ
 ج قَمِيْنَاتٌ وقَمَانٌ کہا جاتا ہے۔ أَقَمْنٌ
 بِهِذَا الأَمْرُ: یعنی وہ اس کے لئے سزاوار تر
 ہے۔ وَهَذَا الأَمْرُ مَقْمَنَةٌ لِدَاكُ: یعنی
 زیادہ مناسب ہے۔
 القَمْمَقِيْنُ: بکڑا ہوا۔
 قَمَامِيْ مَقَامَةٌ: موافق ہونا۔ کہا جاتا ہے: مَا
 يَقَامِيْنِيْ هَذَا يَمِيْرٌ مِمَّنْ مِمَّنْ
 قَمِيْمَةٌ (س) قَمُوْهَا البَعِيْرُ: جوش سے سر اٹھا
 لینا اور پالی نہ پینا..... الشُّي: فی المَاءِ
 ڈوبنا اور اچھلنا۔
 تَقَمَّمَةٌ فِي الأَرْضِ: آوارہ پھرنا۔ کہا جاتا
 ہے "خَرَجَ قَلَانٌ يَتَقَمَّمُ" قَلَانٌ نَكَلًا اس حال
 میں کہ نہیں جانتا کہ کہاں جائے۔
 القَمَمَةُ: کھانے کی کم خواہش۔
 القَامِيْمَةُ: قَامٌ ج قَمَمَةٌ.
 القَمَمَهُدُ: مرنا..... الرَّجُلُ او البَعِيْرُ: سر اٹھانا
 بِالسَّكَنِ: ہمیشہ اقامت کرنا۔ تیز
 دوڑنا۔
 القَمَمَهُدُ: کمینہ۔ بداصل۔ بدصورت۔
 قَامَاهُ مَقَامَةٌ (يَأْتِي) موافقت کرنا۔ تم کہو
 گے مَا يَقَامِيْنِيْ هَذَا الشُّي: یعنی یہ چیز مجھے

موافق نہیں۔
 قَمْنٌ (ن) قَمْنَا: نگاہ ڈال کر ڈھونڈنا۔ خبروں
 کو تلاش کرنا۔ لا شئ سے مارنا۔ قَمْنٌ فِئِي
 الخَبَلِ: پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنا۔
 إِقْمَنُ: غلام بنانا۔ جاموش ہونا..... وَإِقْمَانٌ
 إِقْمَانًا) کھڑا ہونا۔
 إِسْتَقَمَنُ بِالْأَمْرِ: مستقل ہونا۔ بکریوں میں رہ
 کر انہیں کے دودھ پر گزارہ کرنا۔
 القَمْنُ: چھوٹی پہاڑی..... والقَمَانُ) کرتے
 کی آستین۔
 القَمْنُ: غلام۔ خود مملوک ہوا ہو یا اس کے ماں
 باپ اور یہ لفظ مذکر مؤنث مفرد جمع سب کے
 لئے ہے اور کبھی جمع اقنان واقفہ آتی ہے۔
 القَمَانَةُ والقَمُونَةُ: غلامی۔ بندگی۔
 القَمْنَةُ: چھوٹی پہاڑی۔ پہاڑ کی چوٹی۔ وقَمْنَةٌ
 نُحْلٌ شَيْءٌ: ہر چیز کا بالائی حصہ۔ ج قَمْنٌ وَقَمَانٌ
 وَقَمُونٌ وَقَمَاتٌ.
 القَمِنَةُ: رسی کی لڑیوں میں ایک لڑی۔ ایک
 دووا کا نام۔ ج قَمِنٌ.
 القَمِنُ: طریقہ۔ روش۔
 القَمِيْنَةُ: شیشہ کی بوتل۔ ج قَمَانِيْ وَقَمَانٌ.
 القَمَانُونُ: قاعدہ۔ اصل۔ ہر چیز کا پیمانہ۔
 ایک قسم کا باجہ۔ ج قَمَانِيْنٌ (دخیل)
 قَمْنَا (ف) قَمْنُوا. الشُّي: گہرا سرخ رنگ
 والا ہونا..... الإلْحِيَةُ مِنَ الخِضَابِ: داڑھی
 کا خضاب سے سیاہ ہونا (قَمْنَا) اللَّبَنُ: دودھ
 میں پانی ملانا۔
 قَمْنَا (ف) قَمْنَا وَقَمْنَا وَقَمْنَةً وَقَمْنِيًّا لِخِيْتِهِ:
 داڑھی کو خضاب سے سیاہ کرنا۔ قَمْنَا
 الشُّي: گہرا سرخ رنگنا۔
 (قَمْنَا) (ف) قَمْنَا وَأَقْمَانًا الرَّجُلُ: قتل کرنا یا کسی
 دوسرے کو قتل کرنے پر برا بھلا کہنا۔ أَقْمَانًا
 الأَدِيْمُ: چمڑے کو خراب کرنا..... الشُّي
 قَمْنَا: ممکن ہونا اور قریب ہونا۔
 قَمْنِيْ (س) قَمْنَا: مرنا..... الأَدِيْمُ: چمڑے کا
 خراب ہونا۔ کہا جاتا ہے "أَخْمَرُ
 قَمَانِيْ" بہت گہرا سرخ۔

السَّمْنَةُ وَالْمَقْنُونَةُ: وہ جگہ جہاں دھوپ نہ پڑے۔

الْقَبِيلُ: ہاتھی کی گردن۔ پستہ قد عورت۔

قَنْبٌ (نض) قَنْوُنًا فِي الشَّيْءِ: داخل ہوتا۔ الشَّمْسُ: آفتاب کا غروب ہوتا۔

الْكَرْمُ: انگور کی تکلیف وہ ٹہنیوں کو کاٹ دینا۔

قَنْبُ الزَّرْعِ: خوشہ کے پتے ظاہر ہونا۔

الزَّهْرُ: کھلی سے ٹھکانا۔ الكَرْمُ: انگور کی شاخ تراشی کرنا۔

الْأَسَدُ بِمَخْلَبِهِ: شیر کا چنگل کو سمیٹ لینا۔ قَنْبٌ وَقَنْبٌ وَتَقَنْبٌ: الخَيْلُ: چالیس کی جماعت کا دستہ ہونا۔

قَنْبٌ قَنْبٌ وَقَنْبٌ: الخَيْلُ: چالیس کی جماعت کا دستہ ہونا۔

قَنْبٌ قَنْبٌ وَقَنْبٌ: الخَيْلُ: چالیس کی جماعت کا دستہ ہونا۔

أَقْنَبٌ: سفر میں ڈور جانا۔ قرض خواہ سے یا طاقتور سے چھیننا۔

قَنْبُ الزَّهْرِ: پھول کا غلاف ج قَنْوُب.

القَنْبِ: فا۔ بلبلانے والا بھیریا۔ تیز رفتار قاصد۔ وَاذِ قَنْبٍ: وادی جس کا سیلاب ڈور سے جاری ہو۔

القَنْبُ: بڑا بادبان۔ شیر کا چنگل۔ مَن كَفَّتِ الْأَسَدُ: شیر کی ہتھیلی کا وہ حصہ جس میں چنگل سمٹتا ہے۔

القَنْبَابُ وَالْقَنْبَابُ وَالْقَنْبَابَةُ: پتے جن میں خوشہ ہوتا ہے۔ القَنْبَابُ: شیر کا بچہ۔ کمان کی تانت۔

القَنْبُ وَالْقَنْبُ: جوت۔ سن جس سے سٹی بناتے ہیں۔

القَنْبِيبُ: لوگوں کا گروہ۔ گھنا بادل۔

القَنْبِيَابُ: تیز رفتار قاصد۔ تیز رفتار چمچی رساں۔

المِقْنَبُ: تیس سے لے کر چالیس تک گھوڑوں کی جماعت جو لوٹ ڈالنے کے لئے جمع ہوں ج مَقْنَابِيب (.....)

والمِقْنَابِيبُ: شیر کا چنگل۔ المِقْنَبُ: شیر کی

بھیلی۔ کہا جاتا ہے "بِمَخْلَبِ الْأَسَدِ فِي بَقْنَبِهِ" شیر کا چنگل اس کی ہتھیلی میں ہے۔

شکاری کا تحصیل۔

القَنْبِرَةُ وَالْقَنْبِرَةُ: چنڈول نامی ایک قسم کی چڑیا جسے فارسی میں چکاوک کہتے ہیں۔ ج قنابر۔ القَنْبِرَةُ: سر پر کچھ زانڈ پر۔ کلفتی۔

دَجَاجَةٌ قَنْبِرَانِيَّةٌ: چوٹی والی مرغی۔ کلفتی دار مرغی۔

القَنْبِضُ: سانپ۔ پستہ قد۔ مَوْنٌ قَنْبِضَةٌ: القَنْبِضَةُ: بد صورت عورت یا پستہ قد عورت۔

القَنْبِطُ: گوبھی اور حوام قسرنیٹ بھی کہتے ہیں۔

قَنْبِعٌ فِي بَيْتِهِ: چھینا۔ روپوش ہونا۔ قَنْبِعَتِ الشَّجَرَةُ: غلاف کے اندر پھول یا پھل والا ہونا۔

..... الرَّجُلُ غَضَبٌ: وجہ سے پھولنا۔

القَنْبِيعُ: درخت کی گلی کا غلاف۔ خوشہ میں گیہوں کا غلاف۔ پستہ قد خیس مرد۔

القَنْبِيعَةُ: بمعنی القَنْبِيعُ: ایک قسم کا بچوں کے لئے کپڑا۔ پستہ قد عورت۔ قَنْبِيعَةٌ: الخَنْزِيرُ: سور کی خرخرابت۔

القَنْبِيلُ وَالْقَنْبِيلَةُ: لوگوں کی یا گھوڑوں کی جماعت ج قَنْبَالِيب.

القَنْبَالِيبُ: بڑے سرو والا (.....) وَالْقَنْبِيلُ: مونا قوی مرد۔

قَنْبِيلُ الْعَدُوِّ: دشمن پر ہم کے ساتھ حملہ کرنا۔

القَنْبِيلَةُ: ہم اس ہم کی کئی اقسام ہیں۔

(۱) الْقَنْبِيلَةُ الْحَارِثَةُ: آگ لگانے والا ہم۔

(۲) الْقَنْبِيلَةُ الْجَزْفُومِيَّةُ: جراثیمی ہم۔

(۳) الْقَنْبِيلَةُ السَّامَةُ: زہریلا ہم۔

(۴) الْقَنْبِيلَةُ الدَّرِيَّةُ: ایٹم ہم۔

قَنْتٌ (ن) قَنْوُنًا: اطاعت کرنا۔ نماز میں کھڑا ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے خاکساری کرنا۔ کہا جاتا ہے "قَنْتَ اللَّهُ وَقَنْتَ لِلَّهِ"..... لَهْ: ذلیل ہونا۔

قَنْتٌ (ک) قَنْاتَةٌ: کم خوراک ہونا۔

أَقْنَتٌ: نماز میں قیام طویل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے خاکساری کرنا۔ دشمن پر بد دعا کرنا۔ ہمیشہ جگ کرنا۔ دیر تک جنگ کرنا۔

أَقْنَتٌ: فرمانبردار ہونا۔

السَّقَايَةُ: فا۔ ہمیشہ اطاعت و فرمانبرداری میں رہنے والا۔ نماز پڑھنے والا۔ ج قَنْت.

القَنْيْتُ: کم خوراک (مذکورہ مَوْنٌ) کہا جاتا ہے "سَقَاءٌ قَنْيْتُ" پانی کو روکنے والی منگ جو بچے نہیں۔

إِمْرَأَةٌ قَنْوُتٌ: شوہر کی تابعدار عورت۔

القَنْجُلُ: غلام۔

قَنْحٌ (ف) قَنْحًا الْفَوْدُ: نکلنی کا سرا موڑنا..... الشَّرَابُ: پینے والے کا سیراب ہو کر سر اٹھانا۔ سیرابی کے بعد پینے کو ناپسند کرنا (.....) وَأَقْنَحُ (البَابُ: دروازہ کو نکلنی سے اٹھانا۔

قَنْحُ الْبَابِ: دروازے کے لئے لمبی میزھی کچی بنانا۔

قَنْحٌ: سیرابی کے بعد پینے کو ناپسند کرنا۔

القَنْحُ: دروازے کے پیچھے لگانے کا ڈنڈا۔

القَنْجُ: لمبی میزھی کچی۔ نکلنی جس کو دوسری نکلنی کے نیچے ڈال کر حرکت دیں۔

القَنْجَاخِرُ: ج قَنْسَاخِرُ وَالْقَنْجَاخِرُ: بڑے جسم والا آنٹ قَنْسَاخِرُ: مونا ٹاک۔

القَنْجَاخِرُ: کشادہ نتھوں اور سخت آواز منہ والا۔

القَنْحُورَةُ وَالْقَنْحُورَةُ وَالْقَنْحُورُ: بڑی چٹان۔

القَنْدُ: ج قَنْوُدُ وَالْقَنْدِيدُ: ج قَنْادِيدُ: شکر۔

القَنْدِيدُ: کافور۔ ایک قسم کی خوشبو جو زعفران سے بنائی جاتی ہے۔ خوشبودار شراب۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ بِالْأَمْرِ عَلَيَّ قَنْادِيدُهُ" وہ معاملہ کو اپنی روش پر لایا..... سَوَوِيْقٌ مَقْنَدٌ وَ مَقْنُونَةٌ: شکر ملا ہوا ستو۔ کلام مَقْنَدٌ: شیریں گنگٹو۔

القَنْدِيدَةُ الْحَمْرَاءُ: بڑے پتوں والا پودا

جس کی بلندی دس میٹر ہوتی ہے بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں زینت کے لئے بولا جاتا ہے۔

رَجُلٌ مَقْنُودٌ الْكَلَامِ: شیریں کلام مرد۔

الْمُقْنَدِرُ وَالْمُقْنَدِسُ: ایک آبی جانور جس کی ذم چوڑی ہوتی ہے اور اس کا رنگ سیاہی مائل سرخ ہوتا ہے اور اس کی کھال سے پوسٹین بنتی ہے۔

مُقْنَدِسٌ: گناہ کے بعد توبہ کرنا..... طوسی الأَرْضِ: سیر و سفر کرنا۔

الْمُقْنَدِغِلُ: بے وقوف۔

مُقْنَدِلٌ: بڑے سرو والا۔ صفت مُقْنَدِلٌ وَمُقْنَادِلٌ وَمُقْنَدِيلٌ.

رَأْسٌ مُقْنَادِلٌ: بڑا اور مضبوط سر۔

الْمُقْنَدِيلُ: چراغ۔ فالوس۔ رَجٌ قَنَائِيلٌ (دخیل)

الْمُقْنَدُولُ: ایک خاردار درخت۔ واحد مُقْنَدُولَةٌ.

الْمُقْنَدُوعُ: مرد دیوث۔

أَقْنَرٌ: چھوٹے منگے سے پینا۔

الْقَنْزُ وَالْإِقْنِيزُ: چھوٹا مڈکا۔

الْقَانِزُ وَالْقَنْزَارُ: شکاری۔

الْقَنْزُ: قنص میں ایک لغت ہے۔

الْقَنْزُوعَةُ وَالْقَنْزُوعَةُ وَالْقَنْزُوعَةُ وَالْقَنْزُوعَةُ

وَالْقَنْزُوعُ: بالوں کا گچھا جو سر پر چھوڑ دیا جائے۔ سر کے گرد گرد بال۔ پروں کا بقیہ

مرغ کی کٹائی۔ الْقَنْزُوعَةُ: بہت پستہ قد عورت۔ رَجٌ قَنْزُوعَاتٌ وَقَنْزَاعٌ.

الْقَنْزَاعُ: بلائیں۔ سخت و تلخ بات۔ چھوٹے لوگ۔

أَقْنَسُ الرَّجُلُ: کمینہ ہوتے ہوئے شریف کی طرف اپنی نسبت کرنا۔

الْقَنْسُ وَالْقَنْسُ: اصل۔

الْقَنْسُ رَجٌ قَنْسُوسٌ وَالْقَنْسُ رَجٌ قَنْسَائِسُ وَالْقَنْسُوسُ: سر کا بالائی حصہ۔ خود کی چوٹی۔

راستہ کا درمیان۔ گھوڑے کے دونوں کانوں کے درمیان ابھری ہوئی ہڈی۔

الْقَنْسُ: تیل۔ رَجٌ قَنْسَائِسُ.

قَنْسَرَتُهُ الشَّدَائِدُ وَالسِّنُّ: بوڑھا کرنا۔

تَقَنْسَرُ: بوڑھا ہونا اور جھری پڑنا۔

الْقَنْسَرُ وَالْقَنْسَرِيُّ وَالْقَنْسَرُ: بہت بوڑھا عمر رسیدہ۔

قَنْسَهُ تَقْنِيضًا: کم کرنا۔ اہل و عیال پر نفقت

میں تنگی کرنا۔ قَنْسَ فِي الشَّيْءِ: کمی کیا جاتا۔

الْقَنْسُورَةُ: عورت جس کو حیض نہ آئے۔

قَنْصٌ (ض) قَنْصًا الطَّيْرُ: پرندہ کا شکار کرنا۔

تَقَنْصُ وَاقْتَنْصُ الطَّيْرُ أَوْ الطَّيْرُ: پرندہ یا ہرن کا شکار کرنا۔

القنص: اصل۔

القنص: شکار۔

القنص: شکاری۔

القنص: شکاری لوگ۔

القنص والقنص: شکاری۔

القنص: شکار۔ مؤنث قَنْصَةٌ.

القنص: پرندے کا پونا رَجٌ قَنْصَائِسُ: شکار کرنے والے۔

القنص: سخت۔

القنص: چھوٹی گردن والا۔ چھوٹی پیٹھ والا۔ گھٹھے بدن کا۔

القنصل: پستہ قد۔ ایک حکومت کا معتمد علیہ جو دوسری حکومت میں رہے۔ سفیر۔ رَجٌ قَنْصَائِسُ (دخیل)

القنصیة: قنصل کے رہنے کی جگہ۔

قَنْطٌ (س) قَنْطًا وَقَنْطٌ (ض ن) قَنْطُطًا وَقَنْطٌ (ک) قَنْطَاةٌ: مایوس ہونا۔ صفت قَنْطٌ وَقَانِطٌ وَقَنْطُطٌ.

قَنْطَةٌ (ض ن) قَنْطًا: منع کرنا۔ باز رکھنا۔

قَنْطَةٌ وَأَقْنَطَةٌ: مایوس کرنا۔

قَنْطَكٌ قَنْطَكَةٌ: خوف سے دوڑنا۔

قَنْطَرٌ قَنْطَرَةٌ: بہت مال کا مالک ہونا۔

دیہات چھوڑ کر شہر میں اقامت کرنا.....

عَلَيْنَا: دیر تک ٹنہرنا..... الشَّيْءُ: مضبوط

باندھنا۔ المَرْأَةُ: عورت سے جماع کرنا۔

القنطر: ایک قسم کا پرندہ.....

وَالْقَنْطِيرُ: مصیبت۔

القنطرة: مصل۔ پل۔ بلند عمارت رَجٌ قَنْطَرٌ.

القنطار: ایک وزن جس کی مقدار مختلف

زمانوں میں مختلف رہی۔ سو (۱۰۰) رطل۔

مال کثیر۔ رَجٌ قَنْطَائِيرٌ.

القنطار یون: ایک کڑوی گھاس جو مقوی

معدہ ہے۔ کہا جاتا ہے قَنْطَائِيرٌ مُقْنَطَرَةٌ: بہت زیادہ۔

قَنْعَتٌ وَقَنْعَتٌ (ف س) قَنْعًا: الإِبِلُ: اونٹوں کا تھان پر آنا۔

قَنْعَتٌ (ف) قَنْعًا وَأَقْنَعَتْ وَأِسْتَقْنَعَتْ الشَّاةُ: بلند تھان والی ہونا۔

قَنْعَةٌ: راضی کرنا۔ قَنْعَ الْمَرْأَةُ: عورت کو

دو پتہ اوڑھانا..... رَأْسُهُ بِالسَّيْفِ أَوْ

بِالْعَصَا: سر پر تلوار یا لالچی سے مارنا..... ہ

خِزْيَةٌ وَعَارًا: زسوائی اور عار میں مبتلا کر

دینا۔ قَنْعَ الدَّبِيكُ: مرغ کا لڑنے کے

وقت گردن کے پردوں کو کھڑا کرنا اور کہا

جاتا ہے "قَنْعَةُ الشَّيْبِ خِمَارَةٌ" یعنی اس پر

بڑھا یا چھایا گیا۔

أَقْنَعُ رَأْسَهُ أَوْ صَوْنَتَهُ: سر یا آواز بلند کرنا۔

يَسْدِيهِ فِي الصَّلَاةِ: ہاتھ پھیلانا اور اللہ تعالیٰ

سے رحم طلب کرنا..... الإِنَاءُ: برتن سے

اُثْرِيْنَا: بھر جانے کے لئے پانی کے بہاؤ کی

طرف کر دینا۔ کہا جاتا ہے "أَقْنَعُ الإِنَاءَ فِي

النَّهْرِ" یعنی بھر جانے کے لئے برتن کو نہر میں

پانی کے بہاؤ کی طرف کر دیا۔ أَقْنَعُ الإِبِلَ: اونٹوں کو چراگاہ کی طرف لوٹانا۔

تَقْنَعُ: تکلف قناعت کرنا۔ کپڑے میں

پلٹنا۔

فِي السَّلَاحِ: ہتھیار بند ہونا۔ تَقْنَعَتِ

الْمَرْأَةُ بِالْقِنَاعِ: دو پتہ اوڑھنا۔

أَقْنَعُ بِالشَّيْءِ: راضی ہونا..... الإِبِلُ: اونٹوں کا تھان پر اوپس آنا..... الرَّجُلُ الإِبِلُ أَوْ

الغَنَمِ لِمَا وَاهَا: اونٹوں کو تھان پر اوپس

لا تا۔

القِنْعُ: جِ اقْنَاعٍ وَالْقِنَاعُ جِ قُنْعٌ: تھمیر۔
القِنْعُ وَالقِنْعُ: بھجور کی کڑی کی تھالی جس
میں کھانا رکھا جاتا ہے۔ القِنْعُ: پہاڑ کے
قرب میں بقیہ پانی ریت کا گول ٹیلہ۔ ج
قِنْعَةٌ وَقِنَاعٌ. القِنْعُ: بگل۔

القِنْعَةُ: دو ٹیلوں کے درمیان ہموار جگہ۔ ج
قِنْعٌ وَجِ قِنْعَانٌ.

القِنْعَةُ: سوال۔ دیوار میں روشن دان۔

القِنْعَةُ: مِنَ الخَبِيلِ وَالسَّنَامِ: پہاڑ یا کوہان
کی چوٹی۔ انسانی سر کا اُبھرا ہوا حصہ۔
باریک ریت۔

القِنَاعُ: دو پتہ۔ کھانا رکھنے کی تھالی جِ اقْنَاعٍ
وَالقِنْعَةُ: بول کا غلاف۔ كَشَفَ القِنَاعَ عَنِ
الشَّيْءِ: کناہ سے ترسیخ کرنے سے۔

القِنْعُ: جو تھیم میل ل جائے اس پر راضی
ہونے والا۔

القِنُوعُ جِ قِنْعٍ وَالقِنْعُ جِ قِنْعَاءٍ: بمعنی قِنْعٍ.

القِنَاعُ: جِ اقْنَاعٍ: بمعنی قِنْعٍ: عاجزی سے سوال
کرنے والا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ
جانے والا۔ قوم کا خادم۔ قوم کا اجرت پر
کام کرنے والا۔ جِ قِنَاعِيُونَ وَقِنْعٌ.

رَجُلٌ قِنْعَانٌ: تھوڑی سی چیز پر راضی ہونے
والا مرد۔

شَاهِدٌ قِنْعَانٌ: شاہد عادل کہ جس کی گواہی
کافی سمجھی جائے (مذکر مؤنث مفرد جمع سب
کے لئے)

رَجُلٌ قِنْعَانِيٌّ: جس کی رائے پسند ہو
القِنْعَانُ: بڑا پہاڑی بکرا۔

القِنُوعُ: مصل۔ لالچ۔ میلان۔ سوال۔

اظہار۔ عاجزی۔ تقسیم شدہ پر رضامندی۔

شَاهِدٌ مَقْنَعٌ: شاہد عادل کہ وہ خود یا اس کی
گواہی کافی سمجھی جائے۔ جِ مَقْنَاعٍ اور کہا
جاتا ہے فَلَانٌ لَنَا مَقْنَعٌ: فلاں کے لئے
رضامندی ہے۔ جس پر اہم قانع ہیں۔

المَقْنَعُ وَالْمَقْنَعَةُ: سر پڑالنے کی اوڑھنی۔

المَقْنَعُ: مفتح۔ وہ شخص جو اپنے سر کو خلتا اوپر

اٹھائے ہوئے ہو۔ فَم مَّقْنَعٌ: ایسا مندرجس
کے دانت اندر کی طرف ہوں۔

المُقْنِعُ: قا۔ ذلت کے ساتھ سر کو اوپر
اٹھانے والا۔

المُقْنِعُ: مفتح۔ سر پر خود رکھنے والا۔ کپڑے
میں لپٹا ہوا سر چھپانے والا۔

قَيْفٌ (س) قِنْفَا المَكَانُ: جگہ کا چمچی ہوئی
مٹی والا ہونا..... القِرْسُ: گھوڑے کا سفید
گلدی والا ہونا۔

لِقِنْفَةٍ بِالسَّنِيفِ: تلوار سے نکلنے نکلنے
کرنے۔

أَقْنَفٌ: ڈھیلے کان والا ہونا۔ بہت لشکر والا

ہونا..... وَاسْتَقْنَفَ: رائے اور تدبیر کا
درست ہونا۔ اسْتَقْنَفَ المَجْلِسُ: گول
ہونا۔

القِنْفُ: مصل۔ کان کا چھوٹا اور سر سے ملا ہوا
ہونا۔

القِنْفُ: سیلاب کا کچھڑ جو زمین پر باقی رہ
جائے اور پھٹ جائے۔

القِنْفُ: سر پر تھوڑے بال والا۔

القِنْفَانُ وَالقِنْفَانُ: بڑی ناک، لمبی داڑھی
لمبے قد والا۔

القِنْفَقُ: نکلنے یعنی آسٹریلیا کا قومی جانور۔
جس کی کچھلی ٹانگیں بڑی اور اگلی چھوٹی ہوتی

ہیں۔ مؤنث کے پیٹ کے نیچے چھوٹا تھیلا بنا
ہوتا ہے بچے کو خطرے کے وقت اس میں بٹھا
لیتی ہے۔ انتہائی تیز رفتار جانور ہے۔

القَيْنِفُ: لوگوں کی جماعتیں۔ بہت پانی والا
بادل۔ کم خوراک مرد۔ سر پر کم بال والا
مرد۔ رات کا ایک حصہ۔ جِ قِنْفٌ.

الاقْنِفُ: چھوٹے کان والا..... مِنَ الخَبِيلِ:

سفید گلدی والا گھوڑا۔ موٹی ناک والا۔

مؤنث قِنْفَاءٌ جِ قِنْفٌ. القِنْفَاءُ: انسان کا
کان جس کے لئے دائرہ نہ ہو۔

القِنْفِجُ: موٹی گلدی۔

القِنْفُذُ: جِ قِنْفَاہِدٍ وَالقِنْفُذُ وَالقِنْفُذُ:

قِنْفَاہِدُ: جِ قِنْفِیٌّ۔ مؤنث قِنْفُذَةٌ.

القِنْفُذُ: چوہا۔ درخت جو ریت کے درمیان
ہو۔ ریت کا بلند ڈھیر۔ کہا جاتا ہے "هُوَ
قِنْفُذٌ لَيْلٌ" یعنی وہ چمچل خور ہے۔

القِنْفَاہِدُ: چھوٹے پہاڑ۔

قِنْفَقَشَةٌ قِنْفَقَشَةٌ: جلدی جمع کرنا۔
تَقْنَقَشَ: سبکڑنا۔

القِنْفَالِشُ: چمچی ہوئی ناک سخت داڑھی
والا۔

المُقْنِفِشُ: فا..... فِي المَبَاسِ: بڑی بیعت
اور لباس والا۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ مُقْنِفِشًا
لِخَيْتِهِ" داڑھی کو بڑی بیعت میں کئے ہوئے
آیا۔

تَقْنَقَشَتْ: القِنْفُذَةُ: سیسی کا سٹما۔

القِنْفُذُ: پستہ قدر۔ کینہ..... (وَالقِنْفُذُ)
چوہیا۔

القِنْفُذَةُ: چوڑا۔ مادہ سیسی۔

القِنْفَانُ وَالقِنْفَانُ: ایک قسم کا چوہا۔ سندری
سیسی۔ واحِدٌ قِنْفَانَةٌ. القِنْفَانُ: راہ نما..... (.....)
وَالقِنْفَانُ: زمین کے نیچے پانی معلوم کر لینے
والا انجینئر جِ قِنْفَانٌ..... (دخیل)

قِيمٌ (س) قِنْمَا الجَوْزُ: اخروٹ کا خراب
ہونا۔ فاسد ہونا۔ صفت قِيَامٌ..... القِرْسُ
وَنَحْوُهُ: نبی کہنے کے بعد غبار وغیرہ لگ کر
میلا کچھلا ہونا..... الطَّعَامُ وَاللَّحْمُ وَالسِّقَاءُ
وَعَيْرُهَا: خراب ہونا اور بدبودار ہونا۔

صفت قِيمٌ وَقِيمٌ: اور اسی سے ہے جو کہا جاتا
ہے "يَدِي قِيمَةٌ مِنَ الزَّيْتِ".

القِنْمَةُ: تیل وغیرہ کی بدبو۔
الاقْنُومُ: شخص۔ اصل۔ جِ اقْنَامِيٌّ (دخیل)
قِنَا يَقْنُو قِنْوًا وَقِنْوَانًا وَقِنْوًا وَقِنْوِيٌّ
المَالُ: جمع کرنا۔ اپنے لئے حاصل کرنا۔

قِنَا يَقْنُو قِنْوًا اللّٰهُ الشَّيْءُ: پیدا کرنا..... لَوْنٌ
الشَّيْءِ: گہرا سرخ رنگ ہونا۔

قِنَا يَقْنُو قِنْوًا وَقِنْوَانًا وَقِنْوًا وَقِنْوِيٌّ
وَالقِنْوَانُ: لازم پکڑنا۔ قِنْوِيٌّ

القِنَاةُ: نالی کھودنا۔ اقْنَاةُ اللّٰهُ: عجب کرنا۔ مالدار
بنانا۔ اقْنَيْتُ السَّمَاءُ: بارش رک جانا.....

قِنَا يَقْنُو قِنْوًا وَقِنْوَانًا وَقِنْوًا وَقِنْوِيٌّ
وَالقِنْوَانُ: لازم پکڑنا۔ قِنْوِيٌّ

القِنَاةُ: نالی کھودنا۔ اقْنَاةُ اللّٰهُ: عجب کرنا۔ مالدار
بنانا۔ اقْنَيْتُ السَّمَاءُ: بارش رک جانا.....

قِنَا يَقْنُو قِنْوًا وَقِنْوَانًا وَقِنْوًا وَقِنْوِيٌّ
وَالقِنْوَانُ: لازم پکڑنا۔ قِنْوِيٌّ

قنّی یقنّی قنّا الاثف: تنھنوں کا تنگ ہونا اور درمیان سے اونچا ہونا۔ صفت اَقْنَى۔	قنّی اللہ فلاناً: خوش کرنا۔ راضی کر دینا۔	القاهر: فا۔ بلند۔ ج قواہر۔
تقّی: انقذ سے بچے ہوئے کا ذخیرہ کرنا۔	قانی مقاناة الشئ فلاناً: موافق ہونا۔	القاهر: القاہر کا مؤنث۔ مملکت مصر کا پایہ تخت۔ ہر چیز کا سابق۔ سینہ۔ سر سینہ۔
القنّا والقنی والقنو والقنو: بھجور کا گھجھج الشئ: ملانا الشئ بالشئ: خلط ملط کرنا۔	القہار: اسم بالغہ۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ہے۔
اقنّاء وقنیان وقنیان وقنوان وقنوان: القنّا: نیزہ ج قنّاء: مخلوق۔ الشئ: ہمیشہ رہنا۔	القہرمان: وکیل۔ آدم و خوج کا منتظم۔ ج قہارمہ۔
القنّو والقنّو: کمائی۔ کہا جاتا ہے "لہ غنم قنّو وقنّو" خالص اسی کی بکریاں ہیں۔	اقنّی اقنّاء اللہ: عقی کرنا۔ خوش کرنا۔ راضی کر دینا الصیّد فلاناً ولفلان: شکار کا زد میں آ جانا۔ قریب آ جانا۔	القہرمة: قہرمان کا فریضہ۔
القنّا: پھولوں کی ایک قسم جس سے سرخ گوند نکالی جاتی ہے۔ زریب و زینت کے لئے زراعت کی جاتی ہے۔	القنّیة والقنّیة: کمائی۔ ج قنّی کہا جاتا ہے "لہ غنم قنّیة وقنّیة" خالص اسی کی بکریاں ہیں۔	القہرم: پتہ قد۔ القہقب: عمر رسیدہ۔ لے قد والا۔ سین۔
القنّوۃ: بدلہ۔	أرض مقنّاة: ہر شخص کے موافق آب و ہوا والی زمین۔	قہقر قہقرۃ وقہقر: بچھلے پاؤں لوٹنا۔ کہا جاتا ہے "ہو یقہقر فی مشیہ" جبکہ بچھلے پاؤں چلے۔
القنّاء: نیزہ یا نیزہ کی لکڑی۔ ج قنّا وقنّی وقنّوات وقنّیات: کہا جاتا ہے "فلان صلب القنّاء" فلاں سخت قد والا ہے ڈنڈا۔ جنگلی گائے۔ مادہ تیل گائے۔ درخت خرما گانے کا تھالا۔ نالی۔ ج قنّی وقنّاء وقنّوات۔	قہب (س) قہبنا: بھورے رنگ کا ہونا۔ صفت قہب واقہب۔	القہقور: عمارت جس کو بچے بچروں سے بناتے ہیں اور عوام اسے "قہقور" کہتے ہیں۔
القنّی: نیزہ یا نیزہ کی لکڑی۔ ج قنّا وقنّی وقنّوات وقنّیات: کہا جاتا ہے "فلان صلب القنّاء" فلاں سخت قد والا ہے ڈنڈا۔ جنگلی گائے۔ مادہ تیل گائے۔ درخت خرما گانے کا تھالا۔ نالی۔ ج قنّی وقنّاء وقنّوات۔	قہب (س) قہبنا: بھورے رنگ کا ہونا۔ صفت قہب واقہب۔	القہقوری: بچھلے پاؤں لوٹنا۔ کہا جاتا ہے "زجع القہقوری" وہ بچھلے پاؤں لوٹا۔
القنّی والقنّیة: بکری یا اونٹنی جس کو ذخیرہ بنایا جائے۔	القہب عن الطعام: ہاتھ کھینچ لینا اور خواہش نہ کرنا۔	القہقرۃ: مہس۔ بڑی چٹان۔ گہبوں جو سبزی کے بعد سیاہ ہو جائے۔
القنّاء والقنّیة: نیزہ والا۔ القنّاء: نالی کھونے والا۔	القہب: بڑا اونٹ۔	قہقر (ف) قہقرا: کودنا۔ القہقیر: ریشم۔
القنّی من الاثف: تنھنے تنگ اور درمیان سے بلند تاک اور کہا جاتا ہے "ہو اَقْنَى الاثف" وہ تنگ تنھنے اور درمیان سے بلند تاک والا ہے۔ مؤنث قنّواء۔	القہب: بڑا اونٹ۔	قہقر (ف) قہقرا: کودنا۔ القہقیر: ریشم۔
القنّاء والقنّاء: ق. من الحانط: دیوار کی وہ جانب جس پر سایہ رجوع کرے۔	القہب: بڑا اونٹ۔	قہقر (ف) قہقرا: کودنا۔ القہقیر: ریشم۔
القنّو: سیاہی۔	القہب: بڑا اونٹ۔	قہقر (ف) قہقرا: کودنا۔ القہقیر: ریشم۔
المقنّاء والمقنّوۃ: وہ جگہ جہاں دھوپ نہ پڑے۔	القہب: بڑا اونٹ۔	قہقر (ف) قہقرا: کودنا۔ القہقیر: ریشم۔
قنّی یقنّی قنّیا وقنّیاناً وقنّیاناً المقنّال: حاصل کرنا۔ کمائی کرنا الحیاء: حیا کو لازم ہونا۔	القہب: بڑا اونٹ۔	قہقر (ف) قہقرا: کودنا۔ القہقیر: ریشم۔

”فَلَا تَنْقُصَاتُ الْكَلَامَ“ فلاں لم گفتگو کرتا ہے۔

اسْتَنْقَاسَاتُ اسْتِنْقَاسَاتٍ. فلاں: گزارہ طلب کرنا۔

الْقَات: ایک درخت کا نام۔

الْقُوت: خوراک۔ گزارہ کے لائق کھانا۔ ج اقوات۔

الْقَابِيتِ وَالْقَيْتِ وَالْقَيْتَةُ وَالْقَوَات: خوراک گزارہ کے لائق۔ السَّقَابِيتُ مِنَ الْعَيْشِ: کفایت۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ فِی قَابِيتِ مِنَ الْعَيْشِ“ القایت: شیر۔

السُّقَيْتِ: فنا۔ قدرت رکھنے والا۔ تمہان۔ گواہ۔

قَاحٌ يَقُوخُ قُوخًا وَقُوخٌ يَقُوخُهَا. الجُرُخُ: زخم سوجنا۔ پیپ والا ہونا۔ قَاحٌ وَقُوخٌ الْبَيْتِ: جھاڑو دینا۔

أَقَاحٌ إِسْحَاحَةُ الرَّجُلِ: سوال کے بعد مع کرنے کا ارادہ۔

الْمَقَاحَةُ: جمن۔ کہا جاتا ہے ”دَخَلْتُ قَاحَةَ السَّادِرِ“ گھر کے جمن میں داخل ہوا۔ ج قُوخ.

قَاحٌ يَقُوخُ قُوخًا جَوْفُهُ: بیماری کی وجہ سے خراب ہونا۔

لَيْلَةُ قَاحٍ: کالی رات۔

قَادٌ يَقُوذُ قُوذًا وَقِيَاذَةٌ وَقِيَاذَةٌ وَمَقَادَةٌ وَقِيَاذَةٌ وَقُوذٌ. تَقْوِيذًا وَتَقْوَادًا. الذابہ: چوپائے کو آگے سے کھینچنا۔

قَادٌ يَقُوذُ قِيَاذَةَ الْغَيْشِ: سالار جمیش ہونا۔

..... السَّقَابِلِ إِلَى مَوْضِعِ الْقَتْلِ: قاتل کو قصاص کے لئے لے جانا۔

قَيْدُ الدَّقِيْقِ: آنے کا بیڑا بنانا اور پکا پکا جانا۔

قُوْدٌ يَقُوْدُ قُوْدًا. الْفَرَسُ وَغَيْرُهُ: کسی پیوہ اور گردن والا ہونا۔ صفت: اقوود مونت اقووداء ج اقوود.

اقواد: آگے بڑھنا..... السَّقِيْبِ: بارش کا پھیلنا..... هُ خَيْلًا: آگے سے کھینچنے کے لئے دینا۔

كُوْرُوْنَا الرَّجُلُ: قریب ہونا۔ بھاگنا۔ قُوبُ الْأَرْضِ: زمین کو گولائی میں کھودنا۔

روند کرنا شام چھوڑنا..... الشَّيْ: اُکھیرنا۔ تَقْوَبٌ: جز سے اُکھیرنا۔ کہا جاتا ہے ”تَقْوَبٌ مِنْ رَأْسِهِ مُوَاضِعٌ“ یعنی اس کے سر میں چند جگہ پھل گئیں..... (وَأَنْقَابُ) الْمَكَانِ: درخت اور گھاس سے صاف کیا جانا۔

تَقْوَيْتُ وَأَنْقَابِيَتِ الْبَيْضَةُ: انڈے کا پھٹنا۔ وَأَنْقَابِيَتِ الْأَرْضِ: زمین کا کھدنا۔

أَقْنَابُ الشَّيْ: پسند کرنا۔ اختیار کرنا۔ القاب: مقدار۔ کمان کے قبضہ اور گوشہ کمان کے درمیان کا فاصلہ۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ عَلِيٌّ قَابٌ قُوسِيْنٌ“ کنا یہ ہے بہت قریب ہونے سے۔

الْقُوبُ: چوزہ۔ ج اقوواب. أم قُوبٌ: مصیبت۔

القَيْبُ: مقدار۔ کہا جاتا ہے ”بَيْنَهُمَا قَيْبٌ قُوسٍ“.

القَابَةُ وَالْقَابِيَةُ: چوزہ۔ انڈ اور مثال میں ہے ”تَخَلَّصْتُ قَابِيَةً أَوْ قَابِيَةً مِنْ قُوبٍ“ یعنی انڈا چوزے سے جدا ہو گیا۔ اس موقع پر کہا جاتا ہے جبکہ کوئی اپنے ساتھی سے جدا ہو جائے۔

القُوبُ: انڈے کے چھلکے۔ السُّوْبَاءُ وَالْقُوبَاءُ: ج قُوبٌ وَالْقُوبِيَةُ وَالْقُوبِيَةُ: داد کی بیماری۔ عوام اسے حزاز کہتے ہیں۔ الْقُوبِيَةُ: گھر پر متم خانہ نشین۔ الْقُوبِي: چوزے کھانے کا حریس۔

السُّقُوبُ: جھلا ہوا۔ داد کھلی کی وجہ سے کھال جھلا ہوا شخص..... مِنَ الْحَيَاتِ: کینچلی اُترا ہوا سانپ۔

قَاتٌ يَقُوْتُ قُوْتًا وَقِيَاةُ الرَّجُلِ: روزی دینا۔ گزارہ دینا۔ خوراک دینا۔

أَقَاتٌ إِسْقَاتَةٌ فَلَانًا وَعَلَى فَلَانٍ: گزارہ دینا۔ حفاظت کرنا۔ قابو پانا۔ قدرت رکھنا۔

إِقْصَاتٌ إِقْصِيَاتًا وَتَقْوَاتٌ بِالشَّيْ: کھانا۔ إِفْصَاتُ الشَّيْ: خوراک بنانا۔ کہا جاتا ہے

قَهْمٌ (س) قَهْمًا الرَّجُلُ: بے لیل الاستہام ہونا۔ صفت قَهْمٌ.

أَقَهْمٌ عَنِ الطَّعَامِ: کھانے کی خواہش نہ رکھنا..... عَنِ الشَّيْ: ناپسند کرنا۔ عَنِ الشَّرَابِ وَالسَّمَاءِ: چھوڑنا..... الْإِبِلُ عَنِ السَّمَاءِ: اونٹوں کا پانی پر نہ جانا..... الْبَيْهَ: خواہش کرنا۔ أَقَهْمَتِ السَّمَاءُ: آسمان کا بادل سے صاف ہونا۔

قَهْمَزٌ قَهْمَزَةٌ: کورنا۔ الْقَهْمَزِيُّ: گھوڑے کا پوہ یا ڈوڑنا۔ جلد بازی۔ نشاط۔

الْقَهْمَزُ: پستہ۔ الْقَهْمَزَةُ: صم..... مِنَ النِّسَاءِ: بہت پستہ۔ قد عورت۔

أَقَهْيٌ: قبوہ پینے کی مداومت کرنا۔ الْقَهْوَةُ: خالص دودھ۔ پوری شکم گیری۔

شْرَابٌ: بیان کیا جاتا ہے کہ شراب کو قبوہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے پینے والے کی اشتہا کم ہو جاتی ہے۔ بو۔ کہا جاتا ہے ”أَنَّ فَلَانًا طَيَّبَ قَهْوَةَ الْفَمِ“ یعنی فلاں کے من کی بو اچھی ہے اور

سولہ دن درخت بن کو بھی کہتے ہیں اور اس درخت سے پینے کی جو چیز بنائی جاتی ہے اس کو بھی قبوہ کہتے ہیں۔ نیز جس جگہ کثرت سے پی جائے اس کو بھی مجازاً قبوہ کہتے ہیں۔

الْمَقْهِيُّ: قبوہ خانہ۔ ہوئے قبوہ۔ الْقَهْوَانُ: عمر رسیدہ موٹے سینگوں والا کبار۔

قَهْوَسٌ وَتَقَهْوَسٌ: دوڑنا قَهْوَسٌ وَالرَّجُلُ: خوف سے دوڑنا۔ وَتَقَهْوَسٌ: جھک کر مضطر ہانہ چلنا۔ کبڑا ہونا۔

قَهْيٌ (س) قَهْيٌ وَأَقَهْيٌ إِقَهْيًا عَنِ الطَّعَامِ: اشتہا کم ہونا۔ قَهْيٌ عَنِ الشَّرَابِ: چھوڑنا۔

إِقْتَهْيَ عَنِ الطَّعَامِ: بغیر مرض کے کھانے کی خواہش نہ ہونا۔

الْقَاهِي: تیز خاطر۔ عَنَشَ قَاهٍ: خوش عیشی۔ قَابٌ يَقُوبُ قُوبًا الْأَرْضُ: زمین کو گولائی میں کھودنا..... الطَّائِرُ: پرندہ کا اپنے انڈے

القَائِلُ بِالْقَائِلِ: متول کے بدلے میں قائل کوئل کرنا۔
 قَاوِدَةٌ مَقَاوِدَةٌ: ساتھ ساتھ چلنا۔
 اِنْقَادٌ اِنْقِيَادًا: اِنْقِلَابٌ: تابعدار ہونا۔ فروتنی کرنا..... الطَّرِيقُ إِلَى كَذَا: واضح ہونا۔
 نمایاں ہونا..... واِنْقَادٌ اِنْقِيَادًا: کھینچنا۔
 اِنْقَادُ الذَّابَّةِ: کھینچنا۔ کہا جاتا ہے "اِنْقَادُ الذَّابَّةِ فَالْفَنَادَاتِ" اس نے جانور کو کھینچا پس وہ کھینچ گیا (لازم و متعدی)
 تَقَاوُدُ السَّكَّانِ: جگہ کا ہموار ہونا.....
 الرَّجُلَانِ: دوسروں کا ایک ساتھ بھاگنا گویا کہ دونوں ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں۔
 اِسْتَقَادٌ: ذلیل ہونا۔ فروتنی کرنا..... لَمَّةٌ: فرماں بردار ہونا۔ تابعدار ہونا..... الاِمِّيْرُ: متول کا قصاص لینے کی درخواست کرنا۔ کہا جاتا ہے اِسْتَقَادَ الاِمِّيْرُ مِنَ الْقَائِلِ فَاقَاوَدَهُ مِنْهُ: اس نے امیر سے قصاص لینے کی استدعا کی اور امیر نے قصاص لیا۔
 القَادُ والقَيْدُ: اندازہ و مسافت۔ کہا جاتا ہے "بَيْنَهُمَا قَادٌ قَوْسٌ او قَيْدٌ قَوْسٌ" ان دونوں کے درمیان ایک کمان کی مقدار فاصلہ ہے۔
 القَوْدُ: مص - کوئل گھوڑا۔ کہا جاتا ہے "مَرَبْنَا قَوْدًا"
 القَوْدُ: تود کا مصدر۔ قصاص۔ متول کے بدلے میں قائل کوئل کرنا۔
 القِيَادُ: مص - جانور کو کھینچنے کی رسی۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ سَلِسٌ الْقِيَادُ" فلاں تمہاری خواہشات کا فرمانبردار ہے "وَأَعْطَى فُلَانٌ الْقِيَادَ" فلاں خوشی سے فرمانبردار ہو گیا۔ اور بعضوں نے کہا کہ مجبوراً۔
 فَرَسٌ قَيْدٌ وَقَيْدٌ وَقَوْدٌ وَقَوْدٌ: سدھا ہوا تابعدار گھوڑا۔
 القَوَادُ: اسم مبالغہ۔
 الاَقْوَدُ: سدھا ہوا تابعدار گھوڑا۔ مضبوط گردن والا۔ بخیل۔ کسی چیز کی طرف متوجہ

ہونے والا اور باز نہ رہنے والا (.....) و المَقْوَدُ لِسَابِهَا:۔
 القَائِدُ: قا۔ ج قَوَادٌ وَقَوْدٌ وَقَادَةٌ: حج قَادَاتٍ: مستطیل زمین یا پہاڑ۔ پہاڑ کی چوٹی۔
 القَائِدَةُ: قائد کا مؤنث۔ زمین پر پھیلا ہوا ٹیلہ۔ کہا جاتا ہے "أَعْطَاهُ مَقَادَتَهُ" یعنی وہ اس کا فرمانبردار ہو گیا۔
 المَقْوَدُ: جانور کو کھینچنے کی رسی۔ ج مَقَاوِدُ. المَقْوَدُ: منع اور مَقْوُودٌ: بھی اصل کے لحاظ سے کہا جاتا ہے۔
 طَرِيقٌ مَنْقَادٌ: سیدھا راستہ۔
 قَارٌ يَشْوُرُ قَوْزًا: بچوں کے بل چلنا.....
 الصَّيْدُ: فریب دے کر شکار کرنا..... فَلَائِئَا: آکھ پھوڑا..... وَقَوْرًا تَقْوِينًا وَقَانَارٌ اِنْقِيَارًا وَاِنْقَوْرًا اِنْقِيَارًا: گول کا ٹاٹا۔ اِنْقَارُ الرَّجُلِ: محتاج ہونا۔ اِنْقَارٌ حَدِيثُهُمْ: کھود کر یاد کرنا۔
 قَوْرٌ يَنْقُورُ قَوْزًا: الرَّجُلُ: کاٹا ہونا۔
 تَقْوَرُ السَّحَابُ: بادلوں کا علیحدہ علیحدہ گول کلاے ہونا..... السَّيْلُ: اکثر رات گزر جانا..... الحَيَّةُ: سانپ کا کٹری مارنا۔
 اِنْقَارٌ اِنْقِيَارًا: واقع ہونا..... اِنْقَارَاتِ البُرِّ: کنوئیں کا منہدم ہونا۔ ویران ہونا۔ اِنْقَارٌ بِه: مائل ہونا۔
 اِنْقَوْرٌ اِنْقَوْرًا: الفَرَسُ: گھوڑے کا ڈبلا ہونا..... الجِلْدُ: ڈبلے پن کی وجہ سے جھری پڑنا۔ اِنْقَوْرَتِ الارْضِ: روئیدگی کا جاتا رہنا..... فَلَائِنٌ: موٹا ہونا۔
 القَارُ: تارکول۔ سیاہ رنگ کا ایک روغن جس کو کشتی وغیرہ پر ملتے ہیں۔ ایک کڑوا درخت۔ واحد قَارَةٌ: اُونُوں کا بڑا گلد۔
 القَوْرُ: مص - نئی روٹی کی رسی۔
 السَّارَةُ: پہاڑوں سے علیحدہ چھوٹا پہاڑ۔ مادہ ریجھ ج قَارٌ وَقَارَاتٌ وَقَوْرٌ وَقَيْرَانٌ. الاَقْوَرُ: کشادہ۔ مؤنث قَوْرَاءُ. الاَقْوَرِيَّاتُ وَاَلْاَقْوَرُونَ: بڑی بڑی

مَصْبِيئِيْنِ۔
 المَقْوَرُ: منع۔ قارملا ہوا۔ ڈبلا گھوڑا۔
 قَوْرٌ تَقْوِينًا النِّبْتُ: نباتات کا بکثرت ہونا۔
 تَقْوَرُ البَيْتِ: گھر کا منہدم ہونا..... الوَعْلُ: پہاڑی بکرے کا دوڑنا۔
 اِنْقَاذَةُ النَّمْرِ: جیتے کا پھاڑ کھانا۔
 قَاسٌ يَقْوُسُ قَوْسًا القَوْمُ: سابق ہونا۔ آگے بڑھنا..... الشَّيْءُ عَلَيَّ غَيْرِهِ وَبِهِ: نمونہ پر اندازہ کرنا۔
 قَوْسٌ (س) قَوْسًا وَتَقْوُسٌ وَاِسْتَقْوُسُ الرَّجُلُ: خمیدہ پشت ہونا۔ وَقَوْسِيَّتِ السَّحَابَةُ: بارش ہونا۔
 قَاوَسِيٌّ قَفْسُهُ اَقْوَسُهُ: اس نے کمان کے عمدہ ہونے میں مجھ سے مقابلہ کیا میں غالب رہا۔
 تَقْوَسٌ: مڑا ہوا ہونا۔ کمان کی مانند ہونا۔
 قَوْسُهُ: کمان اُفْهَانًا..... ه الشَّيْبُ: بڑھاپے کا بالوں کو پھڑکی کرنا۔
 اِنْقَاسُ الشَّيْءِ: اندازہ کرنا..... بِفُلَانٍ: اقتداء کرنا۔
 القَوْسُ: مص - کمان۔ مؤنث ہے اور بھی مذکر بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کی تغیر قَوْسِيَّةٌ وَقَوْسِيٌّ اور ج قَيْسِيٌّ وَقَيْسِيٌّ وَاَقْوَاسٌ وَقَيْسَاسٌ وَاَقْوُوسٌ وَاَقْبَاسٌ اور نسبت کے لئے قَسْوِيٌّ: اور قَوْسُ کی اضافت شخص کی طرف ہوا کرتی ہے۔ جیسے قَوْسٌ نَدَبٌ وَقَوْسٌ نَيْلٌ وَغَيْرِهِ. القَوْسُ: ہر ختی چیز جو کمان کی طرح ہو۔ قَوْسٌ قَرْحٌ: دھتک۔ ذراع۔ قَوْسُ الرَّجُلِ: جمل ہوئی پیچھ۔
 القَوْسُ: راہب کا صومعہ۔ شکاری کا جھونپڑا۔
 الاَقْوَسُ: خمیدہ پشت۔ بلند ریت کا ڈھیر۔
 لَيْلٌ اَقْوَسٌ: بہت تاریک رات۔ بَلَدٌ اَقْوَسٌ: دُور کا شہر (.....) وَاَلْقَوْسُ وَالْقَوْسِيُّ: مِنَ الْاِيَّامِ: سخت اور لمبا دن۔

السَّوَّاسُ : کمان والا۔ کمان گر۔ کمان چلانے والا۔ والسَّوَّاسُ : پادری یا سفیر کا خادم۔ جن کی خاص وردی ہوتی ہے۔
السَّوْبِسَةُ : ایک خوشبودار پودا جو کہ پتھروں کے قریب بڑھتا ہے سفید تنے والا ہوتا ہے اس کے پھول گلابی ہوتے ہیں اس کے کچھ طبی فوائد ہوتے ہیں۔
القِيَاسُ : کمان کا درست کرنے والا۔

(.....) والسَّوَّاسُ (گھوڑوں کو چلانے والا۔
السَّوْنِسُ وَالْقَوْنِسَةُ : قوس کی تصغیر۔ ایک قسم کی نباتات۔
الْبِقْوَسُ : کمان رکھنے کا تھیلہ۔ میدان رستی کہ جس سے گھوڑ دوڑ میں گھوڑوں کی صفت بندی کی جاتی ہے۔ وہ مقام جہاں سے گھوڑ دوڑ میں گھوڑے دوڑنا شروع کرتے ہیں۔ ج مقاروس۔
تَقْوَصْرُ : بعض کا بعض میں داخل ہونا۔
القَوْصُورَةُ : کھجور وغیرہ رکھنے کا بائس کا بنا ہوا ٹوکرا۔

فَاضٌ يَقْوَضُ قَوْضًا وَقَوْضُ الْبِنَاءِ : عمارت ڈھانا۔ قَوْضُ الضَّفْوْفِ وَالْمَجَالِسِ : تیز پتھر کرنا۔ منتشر کرنا۔ بولنے میں "ہنسی فلان ثم قَوْضٌ" جبکہ کوئی بھلائی کے بعد دُر آئی کرے۔
تَقْوَضٌ : آنا جانا..... الخلقِ او الغُفُوفِ : حلقہ یا صفت کا برا گندہ ہونا (.....) وإِنْقَاضِ الْبِنَاءِ : عمارت کا گر جانا۔ منہدم ہونا۔
القَوْطُ : بکریوں کا ریوڑ۔ ج اقواط۔
القَوْطَةُ : بڑا ٹوکرا۔
القَوَّاطُ : بکریوں کے ریوڑ کو چرانے والا۔
قَاعٌ يَقْوَعُ قَوْعًا : پیچھے رہنا۔ چھپنے پاؤں لوٹنا (.....) وَتَقْوَعٌ : کانٹے دار جگہ میں چلنے والے کی طرح بچتا بچتا چلنا۔
القَاعُ : پست ہموار پہاڑ اور ٹیلوں سے دور والی زمین۔ ج اقشوع و اقشوع و قبيع وقبيعان وقبيعة.

السَّوْعُ : مہم۔ گیہوں، کھجور وغیرہ کے خشک کرنے کی جگہ۔ ج اقشوع۔
القَاعَةُ : مکان کا گھن ج قاعات۔
القَوَاعُ : بلبلانے والا بھینڑیا۔
القَوَاعُ : خرگوش۔ مَوْنُثُ قَوَاعَةٍ : قَاف يَقْوَفُ قَوْفًا وَإِنْقَافُ اقْرَ فُلَانٍ : بیرونی کرنا۔ پیچھے جانا۔
تَقْوَفُ اقْرَ فُلَانٍ : کھوج لگانا۔ تلاش کرنا۔
..... ه فِي الْمَجَالِسِ : بات کرنی سکھلانا۔
کلام کی اصلاح کرنا۔ کہا جاتا ہے "نَهَوُ يَقْوَفُ عَلَيَّ مَالِي" وہ میرے مال کو مجھ سے روکتا ہے۔

السَّيَافُ : فا۔ قیافہ شناس۔ وہ شخص جو کسی کے اعضاء کو دیکھ کر یہ کہہ دے کہ یہ فلاں نب سے ہے۔ ج قَافَةٌ (.....) والقَوَافِ وَالْقَوَافِ (القَوَافِ) کھوج لگانے والا۔
الاقْوَفُ : اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے "هُوَ اقْوَفُ النَّاسِ لِلاَثَرِ" وہ لوگوں میں نشانات کا زیادہ کھوج لگانے والا ہے۔
القَوَفُ : کان کا بالائی حصہ۔
القَوْفِيُّ : ہر خوشبودار دھونی۔
القَافُ وَالْقَوْفُ وَالْقَوْفَةُ مِنَ الرِّقْبَةِ : نقرہ گردن کے بال اور کہا جاتا ہے "أَخَذْتُهُ بِقَوْفِ رِقْبَتِهِ" میں نے اس کی پوری گردن پکڑ لی۔
قَافَتْ تَقْوَفُ قَوْفًا. الذَّجَاجَةُ : مرغی کا کرکڑانا۔
القَافُ : بے وقوف (.....) والقَوْفُ وَالْقَافُ : جسن الرجال : بہت زیادہ لمبا۔ القَافُ وَالْقَوْفُ : ایک آبی پرندہ۔
القَافِقُ : لمبی ترسی۔
القَافِيقُ : ایک قسم کی لمبی ٹوپی جو مالک عجم میں مستعمل ہے۔ ج قَوَافِيقُ (دخیل)
قَوَافَاتُ قَوَافَاةُ الذَّجَاجَةِ : مرغی کا کرکڑانا۔
القَوْفَةُ : ایک قسم کا پرندہ جو آج کل جگہوں میں رہتا ہے۔
قَوَافِلُ قَوَافِلَةُ الرَّجُلِ فِي الْعَجَلِ : پہاڑ پر

چڑھنا۔

قَوَلِي قَوَافَاةٌ وَقَبِيحَةٌ : چیخنا۔ چلانا۔
قَالَ يَقُولُ قَوْلًا وَقَالًا وَقَبِيحًا وَقَوْلُهُ وَمَقَالًا وَمَقَالَةٌ : کہا۔ بولنا..... بگھڑنا۔ حکم کرنا۔
اعتقاد رکھنا..... بِسَيْدِهِ : ہاتھ جھکا کر پکڑنا۔
بِسَرَابِهِ : اشارہ کرنا..... بِسَرَجِلِهِ : چلنا..... عَنْهُ : روایت کرنا..... عَلَيْهِ : افترا کرنا۔ تہمت لگانا..... الْحَايِطُ : دیوار کا گرنا..... لَهُ : خطاب کرنا..... فِيهِ وَعَنْهُ : اجتہاد کرنا..... بِشَوْبِهِ : کپڑے کو بلند کرنا..... بِهِ : محبت کرنا اور اسے لئے خاص کرنا۔

السَّوْمُ بِفُلَانٍ : قتل کرنا اور صفت و غلبت وَمَالٌ وَأَقْبَلُ وَإِسْتِرَاحٌ کے معانی میں بھی مستعمل ہے اور افعال کی تیاری کو بھی قول سے تعبیر کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے "قَالَ فَكَمَلُ قَالَ فَضْرَبُ" وغیرہ اور ظن کے معنی میں بھی آتا ہے اور اسی کا عمل کرتا ہے بشرطیکہ مخاطب کا صغیر اور فعل مستقبل ہو اور اس سے پہلے استفہام ہو اور استفہام اور فعل کے درمیان ظرف کے علاوہ کسی اور چیز کا فاصلہ نہ ہو۔ جیسے "اتَقَوْلُ زَيْدًا مُنْطَلِقًا" بمعنی "اتَقَطُّهُ مُنْطَلِقًا" اور بعض کے نزدیک ظن کے معنی میں بلا کسی شرط کے مستعمل ہے جاے استفہام ہو یا نہ ہو۔ صیغہ مخاطب کا اور فعل مستقبل کا ہو یا نہ ہو جیسے قُلْتُ زَيْدًا مُنْطَلِقًا : بمعنی ظَنَنْتُ.

قَوْلٌ وَأَقَالُ أَقَالَةً وَأَقُولُ أَقْوَالًا : فُلَانًا مَا لَمْ يَقُلْ : غلط قول کی نسبت کرنا۔ نہ کہی ہوئی بات کو منسوب کرنا۔ وَقَوْلُهُ : بات کہنے کی تعلیم دینا یا حکم دینا۔
قَاوَلُهُ مَقَاوَلَةٌ فِي الْأَمْرِ : مباحثہ کرنا۔
تَقْوَلُ عَلَيْهِ الْقَوْلُ : جھوٹ گھڑنا۔
تَقَاوَلُوا فِي الْأَمْرِ : گفت و شنید کرنا۔
إِقْصَالُ الشَّيْءِ : پسند کرنا..... عَلَيْهِمْ : حکم لگانا۔

بِالشُّوْبِ قَوْنَا : کپڑے کو کپڑے سے بدل لینا۔

الْقَالَ وَالْقَيْلُ: مَص - كَتَلُوا الْقَالَ: ابْتَدِأَ سَوَالَ - كَبَنَ وَالَا - جَمِي "زَجَلُ قَالٍ" يَمَعِي قَائِلٌ. الْقَيْلُ: جَوَاب -

الْقَيْلُ: رَيْس - حَمِيرُ كَبَدِشَاهُ كَالْقَب - ج أَقْوَالٌ وَأَقْيَالٌ وَقِيُولٌ.

السُّقُولُ: كَلَامٌ بِأَهْرَاكٍ لَفْظٌ - ج أَقْوَالٌ جَجَ أَقَاوِيلٌ.

الْقَائِلُ: نَا - ج قَوْلٌ وَقَيْلٌ وَقَالَةٌ وَقِيُولٌ. الْقَالَةُ وَالْقَوْلَةُ وَالْمَقَالُ وَالْمَقَالَةُ: كَتَلُوا

الْمَقَالَةَ: كَتَابٌ كَابِئِكُ كَلَا وَالْقَالَةُ: لَوْكُو كِ اَنْدَرِي يَابْجَلِي بِبَلِي هُوِي بَات - دُو پِهر كَالْقَيْلُولُ.

السُّقُولَةُ وَالسُّقُولُ وَالسُّقُولَةُ وَالسُّقُولُ وَالسُّقُولُ ج قُؤُولٌ وَقُؤُولٌ وَالسُّقُولَةُ وَالسُّقُولَةُ: خُوشُ بِيَان - بَهْتُ بُولُئِي وَالَا - الْقُؤُولُ: كُؤِيَا - ج قُؤُولُونٌ.

الْمِجْقُولُ وَالْمِجْقُولُ: اَجْمِي كَتَلُوا كَرْنِي وَالَا - تِيَزُ بَان - الْمِجْقُولُ: زَبَانٌ ج مَقَاوِلُ وَمَقَاوِلَةٌ اِسْرَاةٌ مَقُولٌ وَمَقُولٌ: اَجْمِي كَتَلُوا

كَرْنِي دَالِي تِيَزُ بَانِ عَمْرَت - الْمَقُولُ وَالْمَقُولُ: مَتَع -

كَلِمَةٌ مَقُولَةٌ: بَارِبَارُ كَبَاهُ كَلِمَةٌ - قَامَ يَقُومُ قَوْمًا وَقَوْمَةٌ وَقِيَامًا وَقَامَةٌ: كَبُرَا هُوَا - نَهْرِنَا - چَلْنِي دَالِي سِي كِيْتِي هُو "قَم" لِي

لِي "لِي" يَمِي مِيْرِي وَجِي نَهْرِي - الْمَاءُ: پَانِي كَا حَفْزُ نَدِ پَانِي سِي نَهْرِي جَانَا - قَامَتْ بِه دَابْتُهُ: تَحَكُ جَانَا - قَامَ مِيْرَانُ النَّهَارُ: دُو پِهر هُوَا الْأَمْرُ: اِعْتِدَالٌ پَرِ هُوَا

..... الْمَاءُ: پَانِي كَا جَم جَانَا قَامَتْ السُّوقُ: بَا زَارُ كَارَاجُ هُوَا - قَامَ الْكَلْبُ: كَبُرَا كَا ظَاهِرُ هُوَا الْمَتَاعُ بِه: قِيَمَتُ بَرَابَرُ هُوَا عَلِي الْأَمْرُ: بَدَاوَمَتُ كَرْنَا

..... بِه ظَهْرُهُ: دُرْدَمْدَكَرْنَا بِالْأَمْرُ: اِنْتِظَامُ كَرْنَا عَلِي الْأَمْرُ: كَبْهِيَانِي كَرْنَا

..... عَلِي غَرِيْبِهِ: قَرْضُ دَارُ سِي مَطَالِبُ كَرْنَا فِي الصَّلَاةِ: شُرُوعُ كَرْنَا أَهْلَةٌ: اَهْلٌ وَعِيَالٌ كِي ضَرُورِيَاتُ كُو پُورَا كَرْنَا - كَبَا

جَا تَا هِي "قَامَ يَفْعَلُ كَذَا" لِيْنِي اِسِيَا كَرْنِي لَكَا - قَامَتِ الصَّلَاةُ: نَمَازُ شُرُوعُ هُوِي كِي اُورُ كَبَا جَا تَا هِي "قَامَ بِي وَقَعَدَ" لِيْنِي مِيْرِي مَتَعَلِقُ بُرِي خَبْرِي سِي بِيَلَا مِي -

قَوْمُ الشَّيْ: سِيْدَا كَرْنَا اُورَا سِي سِي تَقْوِيْمُ الْبُلْدَانِ: هِي جَسُ كِي مَعْنِي هِي سِي شِرُوعُ كَا طُولُ وَعَرَضُ بِيَانُ كَرْنَا - قَوْمٌ دَارَةٌ: كِي كُو دُورُ كَرْنَا - الْمَتَاعُ: قِيَمَتُ لَكَا تَا -

قَاوِمَةٌ قِيَامًا وَمَقَاوِمَةٌ: سَا تَحَكُ كَبُرَا هُوَا - مَخَالِفَتُ كَرْنَا - قَاتِمٌ مَقَامٌ هُوَا -

أَقَامَةٌ إِقَامَةٌ وَقَامَةٌ: كَبُرَا هُوَا - أَقَامَ الْمَائِلُ اُو الْمَعْوُجُ: سِيْدَا كَرْنَا اُورُ تَجَبُّ كِي مَوْجُ پَرُ كَبَا جَا تَا

هِي "مَمَا قَوْمُهُ" اُورِي مَزِيْدُ سِي اَنِي كِي وَجِي سِي شَاذُ هِي - أَقَامَ الشَّيْ: بِيْشَرُ رَكْحَانَا بِالْمَكَانِ: وَطْنُ بَنِيَانَا - اَقَامَتُ كَرْنَا الْحَقُّ: حَقُّ ظَاهِرُ كَرْنَا الصَّلَاةُ: كَالِ طَرِيْقَةُ سِي اِدَا كَرْنَا

لِلصَّلَاةِ: اَقَامَتُ كَبْرَانَا السُّوقُ: رَاكُجُ رَكْحَانَا - بَا زَارُ لَكَا تَا -

تَقَاوَمٌ: سِيْدَا هُوَا - كَبَا جَا تَا هِي "قَوْمُهُ" فَيَقْتَوِمُ" مِي سِي اَسِي سِيْدَا كَبَا يَا دُو سِيْدَا هُوَا كِيَا -

تَقَاوَمَ الْقَوْمُ الشَّيْ بِيْنَهُمْ: قِيَمَتُ كَا اِنْدَاذُهُ لَكَا تَا - تَقَاوَمُوا فِي الْحَرْبِ: بَعْضُ كَا بَعْضُ كِي لِي كَبُرَا هُوَا -

إِقَامَ الْقِيَامًا أَنْفَهُ: نَاكُ كَانَا - اِسْتَقَامَ اِسْتِقَامَةً: سِيْدَا هُوَا - كَبَا جَا تَا هِي "اِسْتِقَامَ لَهُ الْأَمْرُ" مَعَالِمُ اِسُ كِي لِي تَحْكِيكُ

وَدُرْسَتُ هُوَا كِيَا الْمَتَاعُ: سَامَانُ كِي قِيَمَتُ لَكَا تَا الشَّيْرُ: شَعْرُ مَوْزُو هُوَا -

السُّبُومُ: لَوْكُو كِي جَمَاعَتُ - ج أَسْوَامٌ وَأَقَاوِمٌ وَأَقْيَالٌ وَأَقَاوِيْمٌ قَوْمُ الرَّجُلِ: قَرِيْبِي رَشْتَةُ دَارُ جُو اِيكُ دَا دَا مِي شَرِيكُ هُوَا -

الْقَوْمُ: دُشْمَنُ جِي قِيْسْمَانُ (..... وَالْقَوْمُ) كِي جَكُ مِي اَقَامَتُ كَرْنَا - الْقَوْمُ: اِرَادُهُ -

الْقَوْمَانُدُسُ: دُو فُؤُجِي جَمَاعَتُ جَسُ كُو تَرِيْبَتُ دِي جَائِي تَا كِي دُو كَشْتِيُو كِي ذُرِيْعِي اَنْدَهِيْرِي مِي دُشْمَنُ كِي خَشِي دَالِي تَحْكَا نُو

كُونِيْمَتُ دُو نَابُو دَكُرْدِي - السُّقُومَةُ: مَص - قَامَ كَا اِسْمُ مَرَّةً - قَامَتِ اِنْسَانٌ - رُكُوعٌ اُورُ جَمْعُهُ كِي دُرْمِيَانُ قِيَامٌ -

السُّقُومُ: اِعْتِدَالٌ - قُؤَامُ الْاِنْسَانِ: قُدُو قَامَتُ -

الْقَوْمِي: قَوْمِيَّتُ كَا نَظْرِي رِي كِنْتِي وَالَا - الْقَوْمِيَّةُ: اَصْلُ اِجْتِمَاعِي سِيَاسِي نَظْرِي جَسُ كِي تَحْتُ اِسُ نَظْرِي كُو مَانِي وَالَا اِمْتُ كِي مَتَعَلِقُ كَامُو كُو اِسُ كِي غِيْرُ كِي كَامُو پَرُ تَرَجِي دِي تَا

هِي - الْقَوْمُ وَالْقِيَامُ: كِرَا رِي - زَنْدُكِي - قِيَامُ الْاَمْرِ وَقِيَامُهُ: مَانِي رِي كِي - جَسُ سِي كِي چِيْزُ كَا قِيَامُ هُوَا اُورُ كَبَا جَا تَا هِي "هُوَ قِيَامٌ اَهْلِيْهِ وَقِيَامُهُمْ" دُو اِسِي اَهْلُ وَعِيَالُ كِي لِي سِهَارُ هِي - الْقِيَامُ: سِيْدَا - كَبَا جَا تَا هِي "زَمَحُ قِيَامٌ" سِيْدَا حَيَا زِي -

السُّقُومُ: اِيكُ بِيْمَارِي جُو جَا نُوْرُو كِي نَا كِي مِي هُوِي هِي -

السُّقَامَةُ: مَص - لَوْكُو كِي جَمَاعَتُ مِنْ اِلْاِنْسَانِ: قُد - ج قِيَامَاتُ وَقِيَمٌ - جَمْعِي مَحُ سَامَانُ كَبَا جَا تَا هِي "اِسْتَقُوا عَلِي الْقَامَةِ" اِنهُُو لِي جَمْعِي پَرِ پَانِي كِي چِيْجَا - ج قِيَمٌ -

الْقِيَامَةُ: مَوْتُ كِي بَعْدُ اَمْنَا - يَوْمُ قِيَامَتِ قَبْرُو سِي اَخْنِي كَا دُن -

الْقِيَمَةُ: قَامٌ: كَا اِسْمُ نُوْعٌ - قِيَمَتُ - ج قِيَمٌ قِيَمَةُ الْاِنْسَانِ: اِنْسَانِي قُد -

الْقِيَمِي: قِيَمَتُ كِي طَرَفُ مَسُوْبٌ -

الْاِقَامَةُ: مَص - اِقَامَةُ الْجُنْدِي: فُؤُجِي كِي ذِيُوِي - ج اِقَامَاتُ اُورُ كَبَا جَا تَا هِي "طَوِي بَسَاطُ الْاِقَامَةِ" لِيْنِي كُو كِي كِيَا -

الْقِسْمُ: كِي لِنْدُرُ جَمْعِي اِسُ كِي بَانِيُو كِي كَاظُ سِي كِي اِقْسَامُ هِي - (۱) اَلْاِسْرُوْسِي اُو اَلْبُوْلِيُوْسِي: اِسُ كُو بُوْلِيُو كِي قِيْمَرُ لِي ۶۳ كِي لِي

سَجُ جَارِي كِيَا تَا - اِسُ مِي سَالُ كِيْمِي (لِي پُ سَالُ) چَارُ پَرُ قِيْمِي هُوَا كَرْنَا هِي -

(۲) اَلْقِسْمُ اَلْهَيْجُوِي: اِسُ كُو حَفْرَتُ عَمْرُ بِنِ الْخَطَابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِي ۱۶ جُولَا لِي ۶۲۲ هـ

۷۷ھ میں جاری کیا تھا۔ ہجری سال ۱۲ قمری
مہینوں کا ہوتا ہے۔ شمس لحاظ سے ۳۵۳ دنوں
کا ہوتا ہے۔ یپ سالوں میں ۳۵۵ دنوں کا
ہوتا ہے۔

التقویم: بمص۔ تقویم البلدان: ممالک کے
طول و عرض اور زمین کے خراج کا بیان۔
التقویم: جنتری۔ رج تقاویم۔

القیّم علی الامر: متولی۔ منتظم۔ مؤنث
قیمة قیمة المرأة: شوہر۔ امر قیّم: سیدھا
معاملہ۔ النبیانة القیمة: راست بازی۔ کہا
جاتا ہے "ذلک دین القیمة" صفت
مؤنث اس وجہ سے ہے کہ دین سے مراد
ملت حسنی ہے۔

القائم: فاتح قوم و قیّم و قوام و قیام و قیّم
و قیام۔ قائم السیف: تلوار کا قبضہ۔ قائم
النساء: پانی کے لئے بلند عمارت جہاں سے
پانی تقسیم ہو۔ واثر و ریس۔

القائم مقام عند اناب السياسة: نائب۔
رج قوام المقامات۔

القائمة قائم: قائم۔ قائمات
وقوائم قائمة السیف: تلوار کا قبضہ۔ قائمة
الذابة: جانور کی ٹانگ اور اسی سے ہے
قائمة الخوان او السریو: دسترخوان یا
تحت کا پایہ۔ رج قوائم: القائمة: کتاب کا
ورق۔ العین القائمة: ایسی آکھ جس کی
بصارت زائل ہو چکی ہو اور ڈھیلا اپنی جگہ پر
قائم ہو۔

قومیة الامر: معاملہ کی درنگی۔ قومیة
الانسان وقومیته: قامت انسان۔

القوام: اچھے قد و قامت والا۔ امور کا
منتظم۔ اچھی نگرانی کرنے والا۔ امیر۔ رج
قوامون۔

القویم: معتدل۔ اچھے قد و قامت والا۔ رج
قیام۔

القیام والقیوم: ہر چیز کا نگہبان۔ بے مشل و
بے ہمتا۔ وہ ذات جو بادی ہو اور قائم بذاتہ
ہو۔ القیوم: اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں

سے ہے۔

الاقوم: اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے "فلان اقوم"
کلاماً من فلان" فلاں بہ نسبت فلاں کے
زیادہ سیدھی سادھی گفتگو کرنے والا ہے۔

المقام: کھڑے ہونے کی جگہ۔ مرتبہ
مقامات (.....) والمقام کھڑا ہونا۔
کھڑے ہونے کی جگہ۔ کھڑے ہونے کا
زمانہ۔

المقامة: مجلس۔ سرداری۔ لوگوں کی
جماعت۔ خطبہ یا وعظ یا روایت جو لوگوں
کے مجمع میں بیان کی جائے۔ رج مقامات
اور اسی سے ہے۔ مقامات یعنی مقامات
حریری وغیرہ۔

المقوم: بل کا دستہ۔
المقامة: کھڑا ہونا۔ لوگوں کی جماعت۔
وطن اقامت۔

المقیم: قا۔ اور کہا جاتا ہے "هذا امر مقيم"
ومقیم" یہ معاملہ اضطراب انگیز ہے۔

تقون الرجل: ظلم کرنا۔ زبان درازی کرنا۔
حد سے گزرنا..... تقون الرجل: اچھی
تعریف کرنا۔

القونة: لوہے یا تانبے کا گھڑا جس سے برتن
کو جوڑتے ہیں۔ رج قون۔

القسان: ایک درخت ہے جس سے کمائیں
بناتے ہیں۔

القاون: کلزی کی ایک قسم۔
قوه تقویها الرجل: چلانا..... الصیة: گھیرا
ڈالنا۔

تقاوة الرجلان: صرخا فتعارفا: نشان
مقررہ سے ایک دوسرے کو چلا کر پہچانا۔

استقوه: شکار کا گھیرا ڈالنے کے لئے کہا۔
ایقہ: اطاعت کرنا۔ سمجھنا۔ کہا جاتا ہے "ایقہ
لهذا" یعنی اس کو سمجھو۔ ایقہ واستیقہ:

اطاعت کرنا اور یہ دونوں اوقہ واستوقہ:
کے مقلوب سینے ہیں۔

السقا: طاعت۔ عزت۔ مرتبہ۔ خوش حال
زندگی اور کہا جاتا ہے "مساك علی فاة تم"

کو میرے اوپر کوئی قدرت نہیں۔

القاهی: خوش حال زندگی والا۔

قوی یقوی قوۃ: توانا ہونا۔ مضبوط ہونا۔
..... علی الامر: طاقت رکھنا (..... قوی)

بہت بھوکا ہونا..... الصطر: بارش بند ہونا۔
قویت قیما وقویۃ الدار: گھر کا خالی ہونا۔

قوی الرجل او الشی: مضبوط کرنا۔
قواوی مقاواة الرجل: طاقت میں غالب
ہونا۔ تم کہتے ہو "قواوی قفوینہ" اس نے
مجھ سے قوت میں مقابلہ کیا میں غالب ہو گیا
وقاواة: دینا۔

اقوی اقواء: محتاج ہونا۔ چھیل میدان میں
اُترنا۔ مالدار ہونا۔ مضبوط و جانور والا
ہونا۔ اقوی الدار: رہنے والوں سے خالی
ہونا۔ اقوی القوم: قوم کا توشہ ختم ہونا.....
الرجل: بھوکا ہونا اور کھانے کو کچھ نہ ہونا۔
اقوی البقعة: خالی کرنا۔ اقوی الشجر:
اشجار کے قوائی کو اعراب میں مختلف کرنا
..... الخیل: رتن کو جا بجا موٹا بنانا۔
تقوی: قوی ہونا۔ مضبوط ہونا۔

تقواوی تقاویا: بھوکے رات بسر کرنا۔ القوم
المتناع بینہم: قیمت بڑھانا یا یہاں تک کہ
انتہائی قیمت پر پہنچنا..... القوم الدلو: سب
کا ڈول کے منہ پر منہ لگا کر پینا۔

افتوی اقواءا المتناع: قیمت بڑھانے
کے بعد خریدنا..... شینا بنی: تبدیل کرنا
..... علی فلان: خطاب کرنا..... الرجل:
مضبوط اور قوی ہونا..... الشی: اپنے لئے
خاص کرنا۔

استقوی استقواء: قوی ہونا۔
القواء والقواء رج اقواء: القوی والقویۃ
والقوی: خالی اور چھیل میدان۔ القواء
والقویۃ: بے بارش کی زمین۔ منزول قواء:
منزل جس میں کوئی انیس نہ ہو۔

القواء والقوی: بھوک۔ کہا جاتا ہے "بات
القواء والقوی" بھوکے رات بسر کی۔
القواء زور۔ طاقت۔ توانائی۔ رج قواوت

القواء والقوی: بھوک۔ کہا جاتا ہے "بات
القواء والقوی" بھوکے رات بسر کی۔
القواء زور۔ طاقت۔ توانائی۔ رج قواوت

القواء والقوی: بھوک۔ کہا جاتا ہے "بات
القواء والقوی" بھوکے رات بسر کی۔
القواء زور۔ طاقت۔ توانائی۔ رج قواوت

القواء والقوی: بھوک۔ کہا جاتا ہے "بات
القواء والقوی" بھوکے رات بسر کی۔
القواء زور۔ طاقت۔ توانائی۔ رج قواوت

القواء والقوی: بھوک۔ کہا جاتا ہے "بات
القواء والقوی" بھوکے رات بسر کی۔
القواء زور۔ طاقت۔ توانائی۔ رج قواوت

القواء والقوی: بھوک۔ کہا جاتا ہے "بات
القواء والقوی" بھوکے رات بسر کی۔
القواء زور۔ طاقت۔ توانائی۔ رج قواوت

القواء والقوی: بھوک۔ کہا جاتا ہے "بات
القواء والقوی" بھوکے رات بسر کی۔
القواء زور۔ طاقت۔ توانائی۔ رج قواوت

القواء والقوی: بھوک۔ کہا جاتا ہے "بات
القواء والقوی" بھوکے رات بسر کی۔
القواء زور۔ طاقت۔ توانائی۔ رج قواوت

القواء والقوی: بھوک۔ کہا جاتا ہے "بات
القواء والقوی" بھوکے رات بسر کی۔
القواء زور۔ طاقت۔ توانائی۔ رج قواوت

القواء والقوی: بھوک۔ کہا جاتا ہے "بات
القواء والقوی" بھوکے رات بسر کی۔
القواء زور۔ طاقت۔ توانائی۔ رج قواوت

وَقَوِيٌّ وَقَوِيٌّ: رشی کی لڑی۔ ج قوی۔
القوی: مختل۔

القَوِيُّ: قا۔ پکڑنے والا۔ لینے والا۔ بَلَدٌ
قَاوٍ: خالی شہر۔

القَوِيَّةُ: مؤنث قسوی: اندازہ کم بارش کا
سال۔ اِبْلٌ قَاوِيَاثٌ: بھوکے اونٹ۔

القَوِيُّ: مفس۔ تَقَاوِي الْأَمْطَارِ: بارش کی
قت۔

القَوِيُّ: مضبوط۔ زوردار ج اَقْوِيَاءُ.

المُقَوِيُّ: قا۔ المَفْرُسُ المَقْوِيُّ: مضبوط
گھوڑا بَلَدٌ مَقْوٍ: شہر جو بارش سے خالی ہو۔

قَاءٌ يَبْقَى قِيًّا. مَا أَكَلَهُ: قے کرنا۔ صفت قَائِيٌّ
قَاءٌ تِ الطَّعْنَةُ الدَّمُ: نیزہ کا خون بہانا۔ کہا
جاتا ہے قَاءٌ تِ الْأَرْضِ الكُمَّةُ: سانپ کی

چمتری کو اُگاتا۔ وَقَاءُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ: مرنا۔
قِيًّا تَقِيَّةً وَأَقَاءَ إِقَاءَةً فَلَمَّا مَا أَكَلَهُ: قے
کرنا۔

تَقِيًّا تَقِيًّا وَاسْتَقَاءَ اسْتِقَاءَةً: جگہ تک قے
کرنا۔

الْقِيَاءُ: قے۔ قے آ آورداء۔
الْقِيُوَّةُ وَالْقِيُوُّ: بہت قے کرنے والا۔

المَقِيَّةُ: قے آ آورداء۔
القِيَارُ والقِيَارَةُ: ج قِيَارِيٌّ والقِيَارُ
والقِيَارَةُ: ج قِيَارِيٌّ: سارگی۔

قِيَاخٌ يَفْقِيحُ قِيْحًا وَقِيْحٌ وَأَقَاخٌ وَقِيْحٌ
الجُرْحُ: زخم کا پیپ والا ہونا یا پیپ بہنا۔

القِيْحُ: پیپ۔ پیپ جس میں خون کی
آ میزش نہ ہو۔

قَيْدُ الرَّجُلِ: بیڑی ڈالا جانا۔
قَيْدَةٌ تَقْيِيدًا: بیڑی ڈالنا۔ رَوَكْنَا.....هُ:

بِالْإِحْسَانِ: احسان مند بنانا۔ قَيْدُ الْكِتَابِ:
اعراب لگانا..... الْكِتَابِ وَالْمَتَكَلِّمُ: کلام

کو کسی قید سے مقید کرنا..... الْجِسَابُ:
حساب لکھنا..... السَّخَطُ: نقطے اور اعراب

لگانا۔
تَقْيِيدٌ: بیڑی میں ہونا۔ رُكْنَا۔

القَيْدُ: جانور کے پاؤں باندھنے کی رشی

وغیره۔ ج قَيْدٌ وَأَقْيَادٌ. وَقَيْدُ الْأَسْنَانِ:
سوڑھا۔ کہا جاتا ہے "قَرَسٌ قَيْدُ الْأَوْبَدِ"

تیز رفتار گھوڑا۔ یعنی اپنی تیز رفتاری کی وجہ
سے وحشی جانوروں کے لئے قید کی مانند ہے

کہ وہ ان کو بھاگنے سے روک دیتا ہے۔
القَيْدُ والقَيْدُ والقَادُ: اندازہ۔ کہا جاتا ہے

"بَيْنَهُمَا قَيْدٌ رُمَحٌ أَوْ قَادُ رُمَحٍ" ان
دونوں کے درمیان ایک نیزہ کی مقدار

ہے۔

القَيْدُ: رشی۔ جس سے جانور کو کھینچا جائے۔
القَيْدُ مِنَ السَّخِيلِ أَوْ الْإِبِلِ: سدھا ہوا

تا بعد اگھوڑا یا اونٹ۔
السَّقِيدُ: مٹھ جانور کے پاؤں میں رشی

باندھنے کی جگہ۔ ج سَقَائِدُ يَأْرِبُ سِقْنِيَّةً
جگہ۔ بِحَسَابِ مَقْيِدٍ: اعراب لگی ہوئی کتاب

اور کہا جاتا ہے "إِسْرَافَةُ مَقْيِدِ الْحِمَارِ" یعنی
آزاد عورت۔ وَنَسُو مَقْيِدٌ: بہت سے بچھو۔

وَأَرْضٌ مَقْيِدَةُ الْحِمَارِ: زمین سٹگراخ۔
قَيْرُ السَّيِّئِ: کسی چیز پر قار ملنا۔

إِفْتَارُ الْحَدِيثِ: بحث کرنا۔ کھود کرید کرنا۔
القَيْسُ والقَارُ: سیاہ رنگ کی ایک چیز جس کو

کستی پر ملتے ہیں تاکہ پانی اندر نہ آئے۔
القَيْوَرُ: گنام۔ غیر معروف النسب۔ کہا جاتا

ہے "هَذَا أَقْيَرٌ مِنْ ذَاكَ" یہ اس سے زیادہ
کڑوا ہے۔

القَيْسُ بُوْسٌ: امریکہ میں ایک پودا جس کا تان
سٹون کی طرح سیدھا ہوتا ہے۔

القَيْرَاطُ: دیکھو مادہ ق رط۔
القَيْرَوَانُ: گھوڑوں کا گلہ۔ فوج کا بڑا حصہ۔

قَالَفَةٌ: ج قَيْرَوَانَاتٌ (دخیل)
قَاسٌ يَقْيِسُ قَيْسًا وَقِيَاةً: ناز سے چلنا۔

بھوکا ہونا..... قَاسٌ يَقْيِسُ قَيْسًا وَقِيَاةً: قَاسٌ
القَيْبُ قَعْرُ الْجِرَاحَةِ: زخم کی گہرائی ناپنا۔

صفت قَائِسٌ..... السَّيِّئُ بَغْيِرُهُ أَوْ عَلِيُّ
غَيْرُهُ: نمونہ پر اندازہ کرنا۔

أَقَاسُ السَّيِّئِ بَغْيِرُهُ وَعَلْيِهِ وَآلِيهِ: نمونہ پر
اندازہ کرنا۔

قَائِسٌ قِيَاةً وَمُقَائِسَةٌ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ:
اندازہ کرنا..... السَّيِّئُ بِحَدِّهِ وَالْحَى كَحَدِّهِ:

اندازہ کرنا..... الرَّجُلُ: اندازہ کرنے میں
مقابلہ کرنا..... هِ إِلَى كَحَدِّهِ: سابق ہونا۔

قَيْسٌ: قبیلہ قیس غیلان سے مشابہ ہونا۔ قبیلہ
قیس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا۔ یا

قبیلہ قیس کے حلیف ہونے یا پڑوسی ہونے یا
ان سے دلاء کا تعلق ظاہر کرنا۔

إِنْقَاسٌ: اندازہ ہونا۔

إِنْقَاسٌ. السَّيِّئُ: اندازہ کرنا۔ کہا جاتا ہے
"هُوَ يُنْقِاسُ بِأَبِيهِ" وہ اپنے باپ کی پیروی

کرتا ہے۔
القَاسُ والقَيْسُ: اندازہ۔ کہا جاتا ہے

"بَيْنَهُمَا قَاسٌ رُمَحٌ أَوْ قَيْسٌ رُمَحٌ" ان
دونوں کے درمیان ایک نیزہ کی مقدار

فاسلہ ہے۔
القِيَاةُ: مفس۔ کہا جاتا ہے "هَذَا قِيَاةٌ

ذَاكَ" یہ اس کے مشابہ ہے القِيَاةُ لِمِ
السَّنَطِقِ: وہ قول جو کم از کم دو تضایا سے

مرکب ہو کہ جن کے تسلیم کر لینے سے ایک
دوسرا قول لازم ہو۔

القِيَاةُ: مطابق قیاس۔
القِيَاةُ: بہت قیاس کرنے والا۔

السَّقِيَاةُ: مقدار جس سے اندازہ کیا جا
سکے۔ ج مقَائِسُ.

القَيْسَرِيُّ: بڑا۔ ج قِيَاةٌ وَقِيَاةٌ.
قَيْسَرِيَّةٌ: قیسریہ کی تحریف ہے اور یہ چند

شہروں کے نام ہے۔ جو قیصرہ روم کے
ناموں پر رکھے گئے تھے۔ جیسے قیساریہ

فلسطین قیساریہ فیلیس قیساریہ کبادوکیا۔
قَاصَتْ تَقْيِصُ قَيْصًا. السِّنُّ: دانت کا بڑ

سے گرنا۔ قَاصُ البَطْنِ: پیٹ کا حرکت
کرنا۔

إِنْقَاصٌ وَتَقْيِصُ الحَائِطِ: دیوار کا جھکنا اور
گرنا..... القَوْسُ: دائرہ کا گرنا یا لہائی میں

پھٹ جانا۔ تَقْيِصُ البُتْرِ: کٹوئیں کا گرنا
إِنْقَاصُ البُتْرِ: پانی بہت ہونا۔ یہاں تک

کہ کرنے کے قریب ہونا۔

قَاضٍ يَقِيضُ قِيضًا الشَّيْءُ: پھاڑنا۔

..... الشَّيْءُ: پھٹنا..... السِّنُّ: دانت ہلنا.....

الشَّيْءُ بِالسَّنِيِّ: مانند بنانا..... الشَّيْءُ مِنْ الشَّيْءِ: بدلہ میں لینا۔

قِيضَتِ البُرِّيُّ: کنوئیں کا بہت پانی والا ہونا۔

قِيضَ اللهُ لَهُ كَذَا: مقدر کرنا..... اللهُ فُلَانًا بَفُلَانٍ: لانا۔

فَاقِيضُ قِيَاضًا وَمَقَاضَةً فُلَانًا بِكَذَا: مبادلہ کرنا۔

تَقَيضَتِ البَيْضَةُ: اٹلے کا ٹوٹنا۔ تَقَيضُ لَهُ كَذَا: مقدر ہونا..... سبب ہونا..... أَبَاهُ:

باپ کے مشابہ ہونا..... انْقَاضُ الحَايِطِ:

دیوار گرنے۔ انْقَاضَتِ الرَّحْمَةُ او السِّنُّ:

گھٹنے یا دانت کا لمبائی میں پھٹنا۔

تَقَاضٍ تَقَاضًا. الرِّجْلَانِ: ایک دوسرے سے تبادلہ کرنا۔

انْقَاضُ الشَّيْءِ: جز سے اکھیڑنا۔

القِيضُ: مہم۔ اٹلے کا خشک چھلکا.....

والقِيَاضُ) برابر۔ کہا جاتا ہے ”هَذَا قِيضٌ

او قِيَاضٌ لِكَذَا“ یہ اس کے برابر ہے

”وَهُمَا قِيضَانٌ“ وہ دونوں ہم مثل ہیں۔

الْمُقَاضِيَةُ: ایک مال کو دوسرے مال کے

ساتھ برابر قیمت پر خرید و فروخت کرنا۔

القِيضَةُ: ہڈی کا چھوٹا ٹکڑا۔ ج قِيضُ.

القِيضُ والقِيضَةُ: چمچ کہ جس کو گرم کر کے

بکری وغیرہ کے نقرہ گردن پر داغ لگائیں۔

التَقِيضُ: اٹلے کی جگہ۔ بِنَزْرٍ مَقِيضَةٌ: بہت پانی

والا کنواں۔ بَيْضَةٌ مَقِيضَةٌ: توڑا ہوا اٹلہ۔

قَاطٍ يَقِيضُ قَيْطًا. اليَوْمِ: سخت گرم ہونا.....

وَقَيْطٌ وَتَقِيضٌ وَاقْتِاطٌ القَوْمُ بالمَكَانِ: گرمی کا

زمانہ گزارنا۔ قَيْطُوا: لوگوں پر گرمی کی بارش ہونا۔

قَيْطَةُ الشَّيْءِ: گرمی کے زمانہ کیلئے کافی ہونا۔

قَاضِيَةٌ قِيَاطًا وَمَقَاضِيَةٌ: گرمی کا زمانہ ساتھ

گزارنا۔ موسم گرما بھر کا معاملہ کرنا۔

السَّقِيظُ: گرمی کی شدت۔ گرمی کا موسم۔ ج

أَقْيَاطٌ وَقَيْطٌ. القَائِطُ والقَيْطُ: سخت گرمی والا۔ يَوْمٌ قَائِطٌ:

سخت گرمی کا دن۔ قَيْطٌ قَائِطٌ: سخت گرمی۔

القَيْطِيُّ: جو گرمی میں پیدا ہوا ہو۔

السَّمَقَاطُ والسَّمَقِيظُ والسَّمَقِيظُ: گرمی کا زمانہ

بسر کرنے کی جگہ۔

المَقِيظَةُ: گرمی تک سبز رہنے والی سبزی۔

قَاعٌ يَقِيضُ قَيْعًا. الخِنْزِيرُ: سور کا آواز نکالنا۔

قَيْفٌ وَتَقَيْفٌ أَثْرَةٌ: تلاش کرنا۔ کھوج لگانا۔

القِيَافَةُ: کھوج۔ تلاش۔

قَالَتْ تَقِيضُ قَيْعًا الدَّجَاجَةُ: مرغی کا کڑکڑانا۔

القَيْقُ: بے وقوف۔ کیوتر کے برابر ایک پرندہ

جس کے بازو مخلط اور دم کالی ہوتی ہے اور

بہت بولتا رہتا ہے اور جس کو اَبَسُ زُرَيْقٌ بھی

کہتے ہیں۔

قَيْسِيَّةُ البَيْضَةُ: اٹلے کے سخت چھلکے کے

نیچے کا باریک چھلکا۔

السَّقِيظَةُ والقِيَافَةُ: سخت زمین۔ ج قَوَاقِبُ

وَقِيَاقٍ وَقِيْقٍ.

القَيْقَبُ: ایک درخت کا نام۔ زمین کا تسمہ۔

وہ لوہا جس کے وسط میں وہ حصہ ہوتا ہے جو

گھوڑے کے منہ میں ہوتا ہے (.....)

والقَيْقَبَانِ زَيْنٌ: ایک کٹڑی جس سے زین

بنائے جاتے ہیں۔

القَيْقَابُ: کپڑے کو چکنا کرنے کا مہرہ۔

قَالَ يَقِيضُ قَيْلًا وَقَائِلَةً وَقَيْلَوْلَةً وَمَقَالًا

وَمَقِيْلًا: دوپہر میں سونا..... قَيْلَاخٌ دوپہر

میں دودھ دونا اور پینا۔

قَيْلَةٌ: دوپہر میں پلانا۔

قَائِلَةٌ: معاوضہ میں دینا۔ تبادلہ کرنا۔

أَقَالَ إِقَالَةً البَيْعُ: بیع توڑنا۔

السُّعْرَةُ عَشْرَتُكَ: کرنے سے اٹھانا۔ درگزر

کرنا۔ أَقَالَ الإِبِلُ: دوپہر میں پلانا۔

تَقْيَلٌ: دوپہر میں سونا..... أَبَاهُ: باپ کے مشابہ

ہونا..... المَاءُ: پانی کا جمع ہونا۔ تَقْيَلَتِ الإِبِلُ

: اونٹوں کا دوپہر میں پینا۔

تَقَابِلَ الرِّجْلَانِ البَيْعُ: بیع کو فسخ کرنا۔

إِقْتَالَ شَيْئًا بِشَيْءٍ: تبدیل کرنا۔

اسْتَقَالَ اسْتَقَالَةَ البَيْعِ: بیع فسخ کرنے کو کہنا۔

اسْتَقَالَ عَشْرَتَهُ: لغزش معاف کرنے کو کہنا۔

السَّقِيْلُ: مہم۔ رئیس۔ جمیر کے بادشاہوں کا

لقب۔ اُونْمِيٌّ: جس کو دوپہر میں دوہا جائے۔

القَيْلُ والقَيْلُولُ: دودھ جو دوپہر میں پیا جائے۔

القَيْلَةُ والقَيْلُولَةُ: اُونْمِيٌّ: جس کو دوپہر میں دوہا جائے۔

القَيْلَةُ والقَيْلُولَةُ: خصیہ کا سوجن۔

السَّقَائِلُ: دوپہر میں سونے والا۔ ج قَيْلٌ

وَقَيْلٌ وَقَيْالٌ.

القَائِلَةُ: قائل۔ کاموٹ۔ دوپہر۔

القَائِلَةُ والقَيْلُولَةُ: دوپہر میں سونا۔ دوپہر میں لینا۔

زَجَلٌ قَيْالٌ: ہمیشہ دوپہر میں سونے والا۔

الإِقَالَةُ: مہم۔ عقد کا فسخ کرنا۔

السَّقِيْلُ: مہم قبولہ کرنے کی جگہ۔ دوپہر

میں سونا یا لینا۔

السَّقِيْلُ: دودھ دوہنے کا بڑا برتن جس میں

دوپہر کے وقت دوہا جائے۔

دَوْحَةٌ مَقِيْالٌ: بڑا درخت جس کے نیچے

بہت زیادہ لینا جائے۔

قَانَ يَقِيضُ قَيْنًا الحَدِيدُ: لوہے کو برابر کرنا

..... الإِنْسَاءُ: برتن کو درست کرنا..... الشَّيْءُ:

جمع کرنا..... اللُّهُ فُلَانًا عَلَيَّ كَذَا: پیدا کرنا

..... المَرْأَةُ المَرْأَةَ: بناؤ سنگا کرنا۔

قَانَ يَقِيضُ قَيْنًا وَقِيَانَةً: لوہا ہونا۔

قَيْنَةُ: مزین کرنا۔

تَقَيِّنُ: مزین ہونا..... النَّبْتُ: اچھا ہونا۔

إِقْتَانَ إِقْيَانًا النَّبْتُ: اچھا ہونا۔ الوُوضَةُ:

باغ کا سرسبز و شاداب ہونا۔

الزَّجَلُ: مزین ہونا۔

السَّقَانُ: ایک درخت ہے جس سے کمائیں

بنائی جاتی ہیں۔ واحد قَائِنَةٌ.

السَّقِيْنُ: غلام۔ ج قِيَانٌ..... لوہا اور ہر

کار میں ج قِيُونٌ وَأَقْيَانٌ.

السَّقِيْنَةُ: باندی۔ لوٹری۔ گانے والی۔ سنگھسی

چوٹی کرنے والی۔ ریڑھ کی ہڈی کا سب

سے نچلا حصہ۔ ج قِيَانٌ.

السَّقِيْنَةُ: مَقِيْسٌ: کاموٹ۔ سنگھسی چوٹی

کرنے والی عورت۔



ک : اَلْكَافُ : بنیادی حروف میں سے بائیسواں حرف ہے۔ حروف مہموں سے ہے۔

ک : مخاطب اور مخاطبہ کے لئے ضمیر منصوب اور مجرور کے طور پر مستعمل ہے جیسے ضَرْبِکَ وَ كِتَابِکَ وَ ضَرْبِکَ وَ كِتَابِکَ وَ ضَرْبِکُمْ وَ كِتَابِکُمْ وَ ضَرْبِکُمْ وَ كِتَابِکُمْ۔

(۲) حرف جار بھی تشبیہ کے لئے جیسے زَبَدٌ كَالْأَسَدِ اور بھی تعلیل کے لئے جیسے أَذْکَرُ وَاللَّهِ كَيْمَا هَذَا كُمْ : یعنی اللہ کو یاد کرو اس لئے کہ اس نے تمہاری ہدایت کی اور کبھی تاکید کے لئے اور اس صورت میں زائد ہوتا ہے "لَيْسَ كَيْمِثْلِهِ شَيْءٌ"۔

(۳) حرف غیر جار اور اس صورت میں معنی خطاب کے ہوتے ہیں اور اسم اشارہ اور ضمیر منصوب منفصل اور بعض اسماء افعال کے ساتھ لاحق ہوتا ہے جیسے ذَلِكَ وَ تِلْكَ وَ اِيَّاكَ وَ اِيَّاكُمْ وَ رُوَيْدَكَ (کِئْتَبُ) (س) کِتَابًا وَ كِتَابَةً وَ كِتَابَةٌ : غمگین ہونا۔ شکستہ دل ہونا۔ صفت کِئْتَبٌ وَ رُوَيْدٌ اور مجازاً کہا جاتا ہے "أَرْضٌ كِئْتَبِيَّةٌ" الْوَجْهِ۔

اَكْتَابَ الرَّجُلُ : غمگین ہونا۔ ہلاکت میں پڑنا۔

..... الرَّجُلُ : غمگین کرنا۔

اِكْتَابٌ : غمگین ہونا۔

اَلْكَأْبَاءُ : سخت غم۔ اِسْرَآةُ كَأْبَاءُ : شکستہ دل و غمگین عورت۔ کہا جاتا ہے مَا اِكْتَابُ : اس کا غم کس قدر شدید ہے۔

اَلْمُكْتَفِبُ : غمگین۔ کہا جاتا ہے "زَمَادٌ مُكْتَفِبُ اللَّوْنِ" یعنی راکھ سیاہی مائل۔ اَلْكُوْنِيَّةُ : ہر وہ چیز جس سے شرم کی جائے۔ كِتَاجُ (ف) كِتَاجًا : الرَّجُلُ : حماقت زیادہ ہونا۔

اَلكِتَاجُ : حماقت۔ بے وقوفی۔ كِتَادُ (ف) كِتَادًا : شکستہ دل و غمگین ہونا۔ غم سے بد حال ہونا۔ كِتَادٌ وَ كِتَادَةٌ : اَلْأَمْرُ فَلَتَانًا : دشوار ہونا۔ اَلْأَمْرُ : مشقت اٹھانا۔

اِكْوَادًا الشَّيْخُ : بڑھاپے کی وجہ سے کانپنا۔ اَلْكَأْدَاءُ : غم۔ سختی۔ پرہیز۔ تاریک رات۔ عَقِيَّةُ كَادَاءٍ وَ كُوْدُ : دشوار گزار گھائی۔ اَلْكُوْدَاءُ : غم یا حکمن کی وجہ سے سختی سانس۔

اَلْكَاسُ : پیالہ (مَوْنُثٌ) ج كَسُوْا وَ وَسَّوْا وَ اَكْوَسُوْا وَ كَسَّاتُ وَ كَسَّاتٌ وَ كَسَّاسٌ : كَسَّاسٌ : اَلزُّهْرَةُ : کلی کا غلاف۔ اَلْكَاسُ : شراب۔ كَسَابِيَّةُ السُّوْرُ : شمالی امریکہ میں پھولوں کی ایک قسم جو خوشبودار ہوتا ہے زیب و زینت کے لئے بویا جاتا ہے۔

كَمَاصَةٌ (ف) كَمَاصًا : ذلیل کرنا۔ مغلوب کرنا۔ اَلشَّيْءُ : بہت کھانا یا پینا۔ کہا جاتا ہے "كَمَاصْنَا عِنْدَهُ مِنَ الطَّعَامِ مَا بَشْتْنَا" یعنی ہم نے اس کے پاس جو کچھ چاہا کھایا۔

كَمَاصًا كَمَاصَةً : کمزور ہونا۔ بزدل ہونا۔ پیچھے ہٹنا۔

كَمَاصًا : بزدل ہونا اور پیچھے ہٹنا۔ اَلْقَوْمُ عَلَيْهِ : قوم کا کسی پر جمع ہونا۔ اَلْقَوْمُ عَلَيْهِ : گفتگو میں عاجز و در ماندہ ہونا۔

اَلْكَأْكَاءُ : بزدلی۔ چور کی بھاگنے کے وقت کی دوڑ۔ اَلْمُتَكَأِيحِي : قا۔ پتہ۔ قد۔

كَمَالٌ (ف) كَمَالًا وَ كَمَالَةٌ : قَرْضُ كَمَالٍ : قرض کے بدلے میں قرض خریدنا یا بیچنا۔ مثلاً تمہارا قرض کسی کے ذمہ ہو تو تم اپنے قرض کو اس کے قرض سے بیچ لو۔

كَمَانٌ (ف) كَمَانًا الرَّجُلُ : مضبوط ہونا۔ كَمَانٌ : حرف مشتبہ بالفعل میں سے ہے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع اور معانی ذیل میں مستعمل ہے۔

(۱) تشبیہ۔ جیسے "كَمَانٌ زَيْدًا اَسَدًا" گو یا زید شیر ہے اور اکثر استعمال اسی میں ہوتا ہے۔ (۲) تَنَكُّ وَ تَنَكُّنٌ : جیسے "كَمَانٌ زَيْدًا قَانِمًا" شاید زید کھڑا ہے۔

(۳) تقریب جیسے كَمَانِكُ بِالِشْتَاءِ مُقْبِلٌ : تقریب ہے کہ تم جاؤ گے میں پہنچو۔

كَمَانِي كَمَانِي كَمَانِي الرَّجُلُ : گفتگو سے رنجیدہ کرنا۔

اَكْمَانِي عَنهُ : ناپسند کرنا۔

كَمَانٌ وَ كَمَانِي : کاف تشبیہ اور ای سے مرکب ہے۔ کم خبریہ کی طرح اکثر کثیر کے معنوں میں مستعمل ہے۔ جیسے كَمَانِي مِنَ الرَّجُلِ اور

کتابی رُجُلًا زَائِتٌ: میں نے بہت سے آدمی دیکھے اور قلت کے ساتھ استفہام کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے حضرت ابی بن کعب کا قول حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے لئے کتابی تَفَرُّا سُوْرَةَ الاحزاب: یعنی تم نے کتنی مرتبہ سورۃ احزاب کی تلاوت کی تو انہوں نے جواب دیا۔ تہتر مرتبہ۔

كُتِبَ (ن) كِتَابًا لِلانساء: برتن کو اوندھا کر دینا۔

..... الرَّجُلُ عَلِيٌّ وَجِهَةٌ وَلَوْجُهُ: پچھاڑنا۔
..... الْغَزْلُ: کاتے ہوئے سوت کا گولہ بنانا۔
..... الشِّيءُ: بھاری ہونا۔ بوجھل ہونا۔

كُتِبَ: کتاب بنانا۔
اَكْتَبَ: فَلَاتًا: پچھاڑنا..... الرَّجُلُ: پچھاڑنا جانا۔ سرگلوں ہونا..... عَلِيٌّ الْعِلْمُ وَغَيْرُهُ: بہتر مشغول ہونا۔ اَكْتَبَ عَلَيْهِ: کسی کو بچانے کے لئے اس پر چھاپنا۔

تَكْتَبُ: کپڑے میں لپٹنا..... الرَّسْمُ او الشَّجَرُ: تہ بہتہ ہونا۔ تَكْتَبُ الْاِبِلُ: اونٹوں کا بیماری وغیرہ کی وجہ سے گرنا۔

تَكَاتَبَ الْقَوْمُ عَلَيَّ الشِّيءُ: بھیڑ کرنا۔
اِنْكَبَ عَلَيَّ الْاَمْرُ: لازم ہونا۔
الْكُتْبُ: ایک قسم کی کڑوی گھاس۔

الْكِبَّةُ: گھوڑوں یا آدمیوں کی جماعت۔ بڑا اونٹ۔ بوجھ۔ كِبَّةُ الْغَزْلِ او الْخُوْطِ: کاتے ہوئے سوت یا دھاگے کا گولہ ج کُتِبَ.

الْكِبَّةُ وَالْكِبَّةُ: حملہ اور کہا جاتا ہے "كَمَانَتْ لِهَيْمٌ كِبَّةً فَيَسِي الْحَرْبِ" یعنی انہوں نے لڑائی میں شور کیا۔ بھیڑ۔ دو گھوڑوں کے درمیان ٹکڑاؤں کے گولہ گولوں کی جماعت۔ كِبَّةُ النَّارِ: آگ کا برا حصہ۔ كِبَّةُ الشَّيْءِ: سردی کا یکباری آنا۔ سردی کی شدت۔

الْكِبَابُ: کتاب۔
الْكِبَابُ: بہت اونٹ بکری۔ چپکنے والی مٹی۔ تہ بہتہ ریت۔

الْمِكْبُ: دھاگا لپٹنے کی ریل۔ ج مِكْبَات

وَمِكْبَاتٌ.
السُّكْبُ وَالْمِكْبَابُ: زمین کی طرف نظر رکھنے والا۔

تَحْيَتُهُ (ض) كَيْسًا: پچھاڑنا۔ رُسُوا كَرْنَا۔ پھیرنا۔ توڑنا۔ ذلیل کرنا۔ غصہ سے رد کرنا۔ کہا جاتا ہے "تَحْيَتُهُ لَوْجُهُ" یعنی اس نے اس کو منہ کے بل پچھاڑ دیا۔ و"تَحْيَتُ فَلَانٌ غَيْظُهُ فَيُجَوِّهُ" یعنی فلاں نے غصہ کو چھپایا۔ و"تَحْيَتُ اللّٰهُ الْعَدُوُّ" یعنی اللہ دشمن کو رسوا و ذلیل کرے۔

اِنْكَبْتُ: پچھاڑا جانا۔ رُسُوا هُوْنَا۔ پھرنا۔ ٹوٹنا۔
الْكِبُوْتُ: اون کی کھلی گرم چادر۔ کبل۔
المُكْتَبُ: غم سے بھرنا ہوا۔

كَيْتٌ (س) كَيْسًا اللَّحْمُ: گوشت کا خراب اور بدبودار ہونا۔ صفت كَيْتٌ وَمُكْبُوْتُ. كَيْتٌ الشَّيْءُ: کشتی کو زمین کی طرف کھینچ کر لانا۔ ایک کشتی کا سامان دوسری کشتی میں رکھنا۔

تَحْيَجُ (ف) كَيْسًا الذَّابَّةُ بِاللَّجَامِ: چوپائے کو لگام کھینچ کر ٹھہرانا۔ كَيْسَهُ عَنِ الْخَاجَةِ: باز رکھنا۔ كَيْسَهُ بِالسَّنْفِ: تلوار سے مارنا۔ كَيْسَ الْخَائِنُ السُّهْمَ: دیوار کا تیر کو واپس کرنا اور گھسنے نہ دینا۔

اَكْبَحَ الذَّابَّةُ بِاللَّجَامِ: چوپایہ کو لگام کھینچ کر ٹھہرانا۔
تَكَابَحَهُ مَكَابَحَةً: گالی گلوچ کرنا۔ مُرَابِحًا کہنا۔

اُكْبِحَ الْمَسْكَانَ: بلند ہونا۔ صفت مُكْبِحٌ وَمُكْبِحٌ.
الْكَابِحُ: فا۔ بدشگونی کی چیز۔ ج تَكْوَابِحُ. بَعِيْرٌ اُكْبِحُ: مضبوط اونٹ۔

كَيْدُهُ (ن ض) كَيْدًا: جگر پر مارنا۔
كَيْدُ الْاَمْرِ: ارادہ کرنا..... السُّرْدُ الْقَوْمِ: سردی کا تکلیف دہ ہونا۔

كَيْدٌ (س) كَيْدًا وَكَيْدًا: درو جگر والا ہونا۔ صفت مُكْبُوْدٌ.

كَيْدًا كَيْدًا وَمُكَابِدَةً الْاَمْرَ: مشتتیں برداشت کرنا..... الْمُسَافِرُ اللَّيْلُ: رات کے خوف اور صعوبت کے باوجود سفر کرنا۔

كَيْدَتِ الشَّمْسُ السَّمَاءَ: آفتاب کا وسط آسمان میں پہنچنا۔

تَكَيْدُ الْاَمْرِ: ارادہ کرنا۔ مشتت برداشت کرنا..... الْمَكَايُنُ: وسط میں پہنچنا..... الشَّمْسُ السَّمَاءَ: آفتاب کا وسط آسمان میں پہنچنا۔ اللَّبَنُ: دودھ کا گاڑھا ہونا۔

الْكَيْدُ وَالْكَيْدُ وَالْكَيْدُ مِنَ الْاَمْعَاءِ: جگر۔ کلیجہ (مذکر مؤنث) ج كَيْدٌ وَكَيْوُدٌ.

الْكَيْدُ: اندرون۔ پہلو۔ وسطی۔ معظم شے۔ كَيْدُ الْقَوْمِ: علاقہ۔ کمان کے دونوں طرف کا درمیان۔ كَيْدُ الْاَرْضِ:

معدنی چیزیں جیسے چاندی سونا وغیرہ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ تَضْرِبُ اِلَيْهِ اَكْبَادَ الْاِبِلِ" یعنی فلاں کی طرف لوگ سفر کر کے آتے ہیں۔
الْكَيْدُ وَالْكَيْدُ وَالْكَيْدَاءُ وَالْكَيْدَاءُ وَالْكَيْدَاءُ مِنَ السَّمَاءِ: وسط آسمان۔

الْكَيْدَاءُ: ہتھ پتھی۔ ریت کا تودہ کہ جس کا درمیانی حصہ بڑا ہو۔ کمان کہ جس کا قبضہ ہتھیلی کو بھر دے۔ السُّكْبُ: پیٹ کی بڑائی۔

مشتت۔ فضاء آسانی۔ سختی۔ ریت کا درمیانی حصہ۔
السُّكْبَةُ: كَيْدٌ: کا اسم مرہ۔ دوستی و محبت کا مہرہ۔

الْكِبَادُ: درو جگر۔
الْكِبَادُ: پکوتہ۔

الْاَكْبَادُ: ایک قسم کا پرندہ۔ درمیان سے مونا آہستہ سے چلنے والا۔ بڑے جگر والا۔ وہ شخص جس کے جگر کی جگہ بلند ہو۔ مؤنث كَيْدَاءُ ج كَيْدٌ.

الْكَيْدِيَّةُ: چھپے ہوئی پھولوں والا کانی جیسا پودا تر مقامات پر زندہ رہتا ہے سبز پتوں والا اس کے پتے سورج کی روشنی پڑنے پر گہرے سرخ رنگ کے دکھنے لگتے ہیں۔

الْكِبَادُ: لیموں۔

الکابید: فا۔ مشقت کی برداشت۔
 کَبْر (س) کَبْرًا وکَبْرًا هِيَ السِّنُّ: عُمر رسیدہ ہونا۔
 کَبْر (ن) کَبْرًا فَلَانًا بِالسِّنِّ: کسی سے بڑا ہونا (عمر میں)
 کَبْر (ک) کَبْرًا وکَبْرًا وَكِبَارَةً هِيَ الْقُدْرُ: مرتبہ میں بڑا ہونا۔ کَبْرٌ عَلَيْهِ الْأَمْرُ: دشوار ہونا۔ سخت ہونا۔ بھاری ہونا۔
 کَبْرٌ الرَّجُلُ فِي مَالِهِ: ظلم سے لیا جانا۔ صفت مکابیر۔ عَلَيْهِ
 كَبْرٌ تَكْبِيرًا وَكِبَارًا: اللہ اکبر کہنا..... الشئ بڑا بنانا۔
 كَابِرَةٌ: دشمنی کرنا۔ مخالفت کرنا۔ غلبہ کرنا..... عَلَى حَقِّهِ: حق کا انکار کرنا۔
 اكْبَرُ الْأَمْرُ: بڑا سمجھنا..... الرَّجُلُ: بڑا شمار کرنا۔ تعظیم کرنا۔
 تَكْبِيرٌ وَتَكَابُرٌ: تکبر کرنا۔ غرور کرنا۔ تَكَابُرُ الرَّجُلُ: اپنے آپ کو بزرگ ظاہر کرنا۔
 اسْتَكْبَرُ: متکبر ہونا..... الْأَمْرُ: بڑا سمجھنا۔ بڑا شمار کرنا۔
 الكِبْرُ: غرور۔ بڑا گناہ۔
 الكِبْرُ وَالْكِبْرُ: چیز کا بڑا حصہ۔ شرف۔ رفعت الكِبْرُ: کفر و شرک۔
 الكِبْرُ وَالْكِبْرَةُ وَالْكِبْرَةُ: بڑھا پانا۔ وَالْكِبْرَةُ: بڑا گناہ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ كَبْرُهُمْ وَكِبْرَتُهُمْ وَكَبْرُهُمْ وَكِبْرَتُهُمْ وَكَبْرَتُهُمْ" وہ ان کا بڑا بڑھا ہے وِفْلَانٌ كِبْرَةٌ وَلِدَائِيهِ: فلاں اپنے باپ کی اولاد میں سب سے بڑا ہے۔ اس میں واحد جمع مذکر مؤنث سب برابر ہیں۔
 الكِبْرُ: وصول۔ رج کبار و اکبار (ذخیل) ایک درخت کا نام۔
 الكِبْرِيَاءُ: بزرگی۔ عظمت۔ غرور۔
 الكِبَارُ وَالْكِبَارُ وَالْكِبَارُ: بڑا۔ الكَابِرُ: بلند مرتبہ سردار۔ مورث اعلیٰ۔
 الكَبِيرُ: بڑا۔ رج کبار و کبراء: معلم۔ رئیس اور کبیر اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے

ہے۔
 الكَبِيرَةُ: کبیر کا مؤنث۔ بڑا گناہ۔ رج کَبِيرَاتٌ وَكَبَائِرٌ.
 الاكْبَرُ: اسم تفضیل اور کہا جاتا ہے "الاكْبَرُ وَالْأَصْفَرُ" بمعنی کَبِيرٌ وَضَعِيحٌ أَكْبَابُ وَأَكْبُرُونَ. أَكْبَابُ الْقَوْمِ: شرفا قوم۔ کہا جاتا ہے "أَتَانِي فَلَانٌ أَكْبَرُ النَّهَارِ" فلاں میرے پاس دن چڑھنے کے وقت آیا۔
 الاكْبَرُ وَالْاَكْبَرُ: ایک میٹھی چیز ہے خشک حلوائے کی مانند۔ جس کو شہد کی کسی جمع کرتی ہے اور یہ شہد اور موم کے علاوہ ہے۔
 الكَبْرَى: اکبر کا مؤنث۔ رج كَبْرٌ وَكَبْرِيَاتٌ: اور کہا جاتا ہے "هَذِهِ الْجَارِيَةُ بِنْتُ كَبْرَى بِنَاتِ فَلَانٍ" یہ لڑکی فلاں کی لڑکیوں میں سے بڑی ہے۔
 المَكْبَرُ وَالْمَكْبَرَةُ: عمر کی بڑائی۔
 المَكْبُورَةُ: اسم جمع بمعنی كَبْرَاءٌ. كَبْرَاتُ الشئ: کسی چیز پر گندھک ملنا۔
 الكَبْرِيَّةُ: گندھک۔ سرخ سونا۔ سرخ یا قوت۔ کہا جاتا ہے "ذَهَبٌ كَبْرِيَّةٌ وَفِضَّةٌ كَبْرِيَّةٌ" خالص سونا چاندی۔
 الكَبْرِيَّةُ الْأَصْفُ: ایک چھوٹا درخت جس کے پھول سفید خوبصورت اور باشم ہوتے ہیں۔
 كَبْسٌ (ض) كَبْسًا عَلَى الشئ: حملہ کرنا اور بچھنا..... الْبَشْرُ: کنوئیں کو مٹی سے پائنا..... رَأْسُهُ فِي السُّوْبِ: سر کو کپڑے میں داخل کرنا۔
 الْقَوْمُ ذَاوَهُ: اچانک حملہ کرنا..... السَّنَةُ بِسَيُومٍ: سال میں ایک دن زائد کرنا..... النَّاصِيَةُ جَنَّةً: پیشانی کو چھپا لینا۔
 كَبْسٌ (س) كَبْسًا: بڑے مر والا ہونا۔ صفت أَكْبَسُ: مؤنث كَبْسَاءُ. رج عَكْبَسُ. كَبْسٌ الْجَسَدُ: جسم کو ہاتھوں سے مل کر نرم کرنا۔
 عَلَى الشئ: گھس پڑنا۔
 تَكْبَسُ وَانْكَبَسَ النَّهْرُ أَوْ الْبَشْرُ: نہریا

کنوئیں کا مٹی سے بھر جانا۔ تَكْبَسَ الرَّجُلُ: سر کو گریبان میں داخل کرنا۔ تَكْبَسَ عَلَى الشئ: گھس پڑنا۔
 الكَبْسُ: کنوئیں پائنے کی مٹی۔ بڑا سر۔ پہاڑ کی جڑ میں غار۔ خزانہ۔ اصل۔ مٹی کا گھر۔
 الكَبْسَاءُ: مچھوروں کا گچھا۔ رج كَبْسَائِسُ. جِبَالٌ كَبْسٌ وَكَبْسٌ: سخت پہاڑ۔
 الكَبْسِيُّ: ایک بیماری ہے جس میں آدمی کو نیند کی حالت میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس کو دبائے ہوئے ہے اور وہ حرکت پر قادر نہیں ہوتا اور یہ مرگی کا مقدمہ ہوتا ہے۔
 الكَبْسُ: سر کو کپڑے میں لپیٹ کر سونے والا۔ بڑے سر والا۔ پُرْ كَوْشَتٌ هَامَةٌ كَبْسٌ: موٹی گول کھوپڑی۔
 الكَبْسَةُ: اچانک حملہ۔
 الكَبْسَةُ: کابس کا مؤنث۔ أَرِيَّةٌ كَبْسَةٌ: اوپر کے ہونٹ پر جھکا ہوا ناک کا بانہ۔
 نَاصِيَةُ كَبْسَةٍ: پیشانی پر لٹکے ہوئے بال۔
 الكَبْسُ: ایک قسم کی مچھور۔ ایک قسم کا زیور جس کے خول میں خوشبو بھری ہوتی ہے۔
 السَّنَةُ الْكَبْسِيَّةُ: وہ سال جس میں فروری کا مہینہ ۲۹ دن کا ہوتا ہے اور یہ ہر اس سال میں ہوتا ہے جو چار پر برابر برابر تقسیم ہو جائے جیسے ۱۹۳۰ء اور ۱۹۳۳ء۔
 المَكْبَسُ: رج مَكْبَسٌ وَالمَكْبَسُ: رج مَكْبَسٌ: اون یا اوراق وغیرہ دبانے کا آلہ۔ المَكْبَسُ: وہ لوگ جو لوگوں کے گھروں میں اکثر گھس آتے ہوں۔
 المَكْبَسُ: فا۔ سر نیچے رکھنے والا۔ اچانک آنے والا اور دبانے والا۔
 الكَبْسُولُ: بندوق کی گولی۔ اس کی دوسری لغت کبسول ہے۔
 كَبْسٌ (ن) كَبْسًا الشئ: مٹھی بھر کر لینا۔
 الكَبْسُ: مینڈھا جب کہ دو سال کا ہو اور بقول بعض چار سال کا۔ رج كَبْسٌ وَالمَكْبَسُ وَالمَكْبَسُ وَكَبْسَةٌ. الكَبْسُ: سردار قوم۔
 بڑا پتھر جو دیوار پر نشانہ لگانے کے لئے لگایا

جائے۔ ایک جنگی آلہ جو حصار کے موقع پر قلعوں پر چڑھتے کے کام آتا ہے۔

الکباش: جواں مرد لوگ۔

الکباش: مینڈھوں والا۔

الکباص والکباصۃ: مضبوط و قوی اونٹ یا گدھا۔

کعب (ف) کعبۃ الشی: کاٹنا..... ف عن کذا: منع کرنا روکنا..... الذراہم: دراہم پر کھنا اور وزن کرنا۔

کعب (ف) کعبوفا: ذلیل ہونا۔ فروتنی کرنا۔ کعب الشی: بکلا سے بکلا کرنا۔

الکعب: ایک قسم کی پھل جس کو "جمل البحر" (سمندر کا اونٹ) بھی کہتے ہیں۔

کعب کعبۃ و کعبۃ الشی: اُلٹنا۔ پھانسی۔ المواشی البشارۃ: بھاگے ہوئے جانوروں کو جمع کرنا..... الشی: گڑھے میں پھینکانا۔

کعب فی ثیابہ: پلٹنا..... القوم: جمع ہونا۔

الکعب والکعب: ایک قسم کا کھیل۔

الکعبۃ بتالیث الکافین والکعبوہ والکعبوۃ: لوگوں یا گھوڑوں کی بھیڑ۔

الکعب والکعب: گھمے بدن والا۔

الکعبۃ والکعب: کاتے ہوئے دھاگے کا گولہ۔

کعب (ض) کعبا و کعبۃ: بیڑی ڈالنا۔ قید کرنا۔

کعبۃ و کعبۃ مکابلۃ الذین: قرض کی ادائیگی میں نال منول کرنا۔ ادائے قرض میں تاخیر کرنا..... کعب الذار: مکان کے خریدنے میں تاخیر کرنا تاکہ دوسرا شخص خریدے لے اور پھر شفعہ سے لے لینا۔

کعب: بیڑی ڈالنا۔ قید ہونا۔

کعب الاسبی: بیڑی ڈالنا..... الکیس: تھیلے کو باندھنا..... ف: خیرہ: روک رکھنا۔

الکعب والکعب: بیڑی۔ بیڑی بیڑی۔ ج کعبول و کعب: ڈول کا کنارہ۔

ڈول کا کنارہ جہاں چھڑا مڑا ہو۔ بہت بالوں والی پوتین۔

الکعب والکعبی: تنگ کپڑا یا پوتین وغیرہ۔ کہا جاتا ہے "فرد کعب او کعبی"۔

الکعبول: شکاری کا جال۔

المکعبول: منع۔ قیدی۔

الکعبی: پستہ۔ قد۔

الکعبولاء: ایک قسم کا کھانا۔

کعب (ن ض) کعبا: القوب: کپڑے کو اندر کو موڑ کر لینا..... الشی: غائب کرنا..... عن الشی: بدول ہونا۔ باز رہنا..... عنہ لسانہ: زبان روکنا..... ہذینۃ: روک لینا۔

کعب (ض) کعبنا و کعبونا الظنی: ہرن کا زمین سے چھٹنا..... الرجیل: سامنے والے اوپر یا نیچے کے اندر گھے ہوئے دانتوں والا ہونا۔ پڑوسی کو چھوڑ کر دوسرے سے سلوک کرنا۔ آہستہ آہستہ دوڑنا۔ موٹا ہونا۔ مطمئن ہونا۔

کعب: لسانہ عنہ: زبان روکنا۔

کعبا و کعبنا: سمٹنا۔ سکڑنا۔

الظنی: ہرن کا زمین سے چھٹنا..... الرجیل: شکستہ دل ہونا۔

الکعب: مص۔ ڈول کا کنارہ۔ ڈول کا موڑ کر سلا ہوا کنارہ۔

الکعب والکعبۃ: بخیل کنجوس۔ کعبۃ: خشک روٹی۔

الکعبان: اونٹوں کی ایک بیماری۔

المکعبون: منع۔ کہاں کی بیماری والا اونٹ۔

من الخیل: چھوٹی ناگوں والا گھوڑا۔ ج کعبین: رجیل مکعبون الاصابع: سخت اور موٹی انگلیوں والا مرد۔ موت کعبونۃ: المکعبونۃ: جلد باز عورت۔

کعبا و کعبو کعبو و کعبو لو خبہ: منہ کے بل گرنا..... الزند: چھماق کا بے آگ ہونا۔

کعب الناز: آگ کا راکھ میں چھینا..... النور: روشنی کم ہونا۔

النبت: نباتات کا پرمردہ ہونا..... العیار: غبار کا اوپر کو چڑھنا..... الجمر: بلند ہونا۔

لوز الصبح او الشمس: تاریک ہونا..... السہم: تیر کا نشانہ پر نہ لگنا..... ماء افسی الوشاء: پانی کو برتن میں گرانا۔ کعبیرنا..... الحوز: کوزہ سے گر دینا..... الشی: صاف کرنا..... البیت: جھاڑو دینا۔

کعبی تکبۃ الناز: آگ کو راکھ میں چھپانا۔ قویۃ بالکعباء: کپڑے کو کبہاء سے دھونی دینا (دیکھئے کعباء)

اکعبی اکعباء: الزند: چھماق کا بے آگ ہونا۔ دھوئیں والا ہونا۔ اکعبی و جعبہ: متغیر کرنا۔

کعبی مکابنۃ السیف: تلوار کو میان میں رکھنا۔

کعبی علی المخبومۃ: عمودان پر کپڑے کو ڈالنا۔

اکعبی بالفود: دھونی دینا۔

اکعبی: منہ کے بل گرنا۔

الکعباء: بلند۔

الکعباء والکعبی ج اکعباء والکعبۃ ج کعبون: کوزا کرکٹ۔

الکعباء: زمین پر پڑی ہوئی متفرق چیزیں۔ پانی کے ادھر ادھر غلیظ جھاگ۔

الکعباء: دھونی کی کلاوی۔ ج کعبی۔

الکعبۃ: کیا: کا اسم مرہ۔ تیرگی۔

الکعبۃ: دھونی دینے کی آگے تھی۔

الکعبی: قا۔ بلند۔ کہا جاتا ہے "فلاں کعبی الزماد" فلاں بہت راکھ والا ہے۔ کنا یہ ہے بہت مہمان نواز ہونے سے۔ الفسخم

الکعبی: جھکا ہوا کولہ۔ رجیل کتاب: باوجود دعوت کے خیر کی طرف متوجہ نہ ہونے والا مرد۔ غیار کتاب: بلند غبار۔

الکعبیۃ: کابی کا موتہ جھاگ۔ ناز کعبیۃ: راکھ میں چھپی ہوئی آگ۔

کعبۃ (ن) کعبا: شمار کرنا۔ کہا جاتا ہے "اتانافا کعبۃ (ن) کعبا: شمار کرنا۔ کہا جاتا ہے "اتانافا

بجائش مایگٹ" وہ ہمارے اوپر غیر محصور
فوج لے کر آیا۔

تکت و آکت و اکتت الکلام فی اذنیہ:
چیکے چیکے کہنا۔

تکت (ن) تکتینا: آہستہ چلنا۔

تکت (ض) تکتا البعیر: اونٹ کا آہستہ
آہستہ بڑھانا۔ تکت السقندر: ہانڈی کا

جوش بارنا۔ ابلنا۔ تکت الرجل: ذلیل
کرنا۔ تمکین کرنا۔

اکتت الحدیث: بات سننا۔

تکتا الناس: شور کے ساتھ بھیڑ کرنا۔

الکت: مصل و بلا (مذکر و مؤنث)۔

الکتیة: کت: کا اسم مرۃ۔ زمین کی سبزی۔

الکتیة: رودی مال۔

الکتیت: مصل۔ ہانڈی ایلنے کی آواز۔

جوش شراب کی آواز۔ جوان اونٹ کی

آواز۔ تکتل: کہا جاتا ہے "رجل تکتیت

الیدی" یعنی تکتیل مرد۔

الکتیة: ایک قسم کا کھانا۔

کتب (ن) کتبا و کتبا و کتبا و کتبا

الکتاب: لکھنا۔ کتب علیہ کذا: واجب

کرنا۔ کہا جاتا ہے "کتب اللہ علی عباده

المطاعون علی نفسہ الرحمۃ" یعنی اللہ

تعالیٰ نے بندوں پر اپنی اطاعت فرض کی

ہے اور اپنی ذات پر رحمت کو لازم کیا ہے۔

کتب القبریۃ کتبا: مشک کو دوہرے قسم سے

سینا۔

کتب الکتاب: لکھنا۔ الولد: لکھنا کھانا

..... الجنود: فوج کے دستے بنانا اور تیار

کرنا۔

کتاۃ مکتاۃ: خط و کتابت کرنا۔ ساتھ مل کر

لکھنا۔ کتابت الغبۃ: مال معینہ کی ادائیگی کی

شرط پر آزاد کرنا۔

اکتبیۃ: لکھنا۔ سکھانا۔ لکھنے والا پانا۔

اکتبیۃ القصیدۃ: لکھوانا۔ اکتب القریۃ:

مشک کا مہ ہاندھنا۔

تکتب الرجل: کپڑے سمیٹ کر ہوشیار

ہونا۔ تکتب کتاب: فوج کے دستوں کا
جمع ہونا۔

تکتب القوم: ایک دوسرے سے خط و
کتابت کرنا۔

اکتب الکتاب: لکھنا۔ امل کرنا۔ لکھوانا۔

لکھنے کو کہنا۔ الغلام: لکھنا سکھانا۔

القسریۃ: مشک کو دوہرے قسم سے سینا۔

بطنہ: بند ہونا۔ الرجل: رجس میں اپنا نام

لکھنا اور اسی سے ہے "اکتبت یسأل او

اعانیہ"۔

استکتبہ الشی: لکھنے کو کہنا۔ القصیدۃ:

قصیدہ امل کرنا کو کہنا۔ الغلام: کتاب

بنانا۔

الکتیۃ: مصل۔ کتاب کی نقل۔ حالت۔ حصہ

یا رزق میں رجس ڈھونا۔

الکتیۃ: سینے کا قسم۔ مشک وغیرہ کی درز۔

الکتاب: مصل۔ جس میں لکھا جائے۔ خط۔

صحیفہ۔ فرض۔ حکم۔ اندازہ۔ رج تکتب

وکتب والکتاب علی الاطلاق: ہر وہ

کتاب جو منزل من اللہ ہو۔ اهل الکتاب:

وہ لوگ جن کے پاس آسمانی کتاب ہو۔ أم

الکتاب: اصل کتاب۔ سورۃ فاتحہ۔

الکتیبی: کتابوں کا محافظ۔ کتب فردش۔

الکتباۃ: مصل۔ لکھا ہوا۔ مال معین کی

ادائیگی پر غلام کو آزاد کرنا۔

الکتیب: بندھن سے بندھی ہوئی مشک۔

الکتیۃ: لشکر کا ایک حصہ۔ گھوڑوں کا ریوڑ۔

سواروں کا دست۔ رج کتابت۔

الکتیب: عالم۔ محرز۔ رج کتابت و کتبیۃ

و کتابت۔

الکتاب: جمع کتاب۔ کتب۔ تعلیم گاہ۔

کتبایب۔

المکتب: تعلیم گاہ۔ لکھنے کی جگہ۔ رج

مکتاب۔

المکتبیۃ: لائبریری۔ کتب خانہ۔

مکتاب۔

المکتب: فارجل مکتب: کتابیں نقل

کرانے والا۔

المکتب: فاکتابت کی تعلیم دینے والا۔

المکتوب: مفع۔ خط۔ رج مکتیب۔

کتع (ف) کتعا الطعام: شکم سیر ہو کر

کھانا۔ کتختہ الریح: ہوا کا غبار اڑانا۔

المدی الارض: گیزے کوڑوں کا نباتات

اور درخت وغیرہ کو چاٹ جانا۔

الکتد والکتد: دونوں کندھوں کے درمیان

کا حصہ۔ رج اکتاد وکتود اور کہا جاتا ہے

"خسر جوا علینا اکتادا واکتادا" وہ

ہمارے خلاف گروہ گروہ ہو کر نکلے۔

الاکتد: کندھوں کے درمیان سے بلند حصہ

والا۔

الکتسر والکتسر والکتسر والکتسر: بلند

کوہان۔ الکتسر: بلند عمارت۔ اندازہ۔

چھوٹا ہودہ۔ ہر چیز کا درمیان۔

الکتور والکتور: لڑکھڑاہٹ کی چال۔

الکتورۃ: قبہ۔ گنبد۔ کوہان کا ایک ٹکڑا۔

کتش (ن) کتشا لآخلیہ: کمانی کرنا۔

کتع (س) کتعا: سکڑنا۔ لجا ہونا۔ یعنی

العقل: مستعد ہونا۔ کوشش کرنا۔

کتع (ف) کتعاہ: لے جانا۔ (مکتو غا)

فی الارض: ڈور ہونا اور بھاگنا۔

کتع اللحم: گوشت کے ٹکڑے کلوے کرنا۔

کتاعہ اللہ: تباہ و برباد کرنا۔

تکتاع الرجلان: ایک دوسرے کا پیچھا

کرنا۔

المکتع رج کتعا و المکتع: لیم و ذلیل

المکتع: مرد ہلکا پھلکا۔ چست۔ لجا۔ راستہ کا

واقف۔ لومزی کا بچہ۔ بھیڑیا۔ المکتع:

اکیلا منفرد۔ کہا جاتا ہے "مساب الذار کتعی او

کتعا" یعنی گھر میں ایک بھی نہیں۔ حوّل

کتعی: پورا سال۔

المکتع رج کتعا و المکتع رج کتعی

و المکتع رج کتعی: ڈوہلی۔

کتعی: کتعا: کی جمع ہے مؤنث کی تاکید میں

مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے "اشتریت ہذہ

آلود ہونا۔
 كَتَّأَلَهُ اللّٰهُ: تباہ و برباد کرنا۔ ملعون کرنا۔
 كَتَّلَ الشَّيْءُ: جمع کرنا اور گول بنانا۔
 تَكْتَلُ القَصِيْرُ: پستہ قد کا چھوٹے چھوٹے
 قدم سے چلنا..... الشَّيْءُ: جمع ہونا۔ تہ بہ تہ
 ہونا اور گول ہونا۔
 اِنكَلَّ: گزرنے۔ جانا۔
 الكُمَّلَةُ مِنَ الطَّيْنِ وَنَحْوُهُ: مٹی وغیرہ کا جمع
 شدہ ٹکڑا۔ گوشت کا ٹکڑا۔ کھجوروں کا گچھا ج
 کُتِلَ۔
 الكُتَالُ: نفس۔ حاجت جس کو تم پورا کرو۔
 مشقت۔ تنگ زندگی۔ درست کیا ہوا لباس
 یا کھانا۔ گوشت۔ قوت (.....) (والکُتَلُ)
 موٹا پا اور کہا جاتا ہے "أَلْقَى عَلَيْهِ كَتَّالَهُ"
 اس نے اس پر اپنا بوجھ ڈالا۔
 الكُتَيْلَةُ: شمالی امریکہ میں ایک خوبصورت
 درخت جس کے پتے چوڑے اور پھول
 بڑے اور سفید ہوتے ہیں۔
 الكَيْبَلَةُ: درخت خرما جس پر ہاتھ نہ پہنچ
 سکے۔ ج کٹال۔
 الاكْتَلُ: سخت مصیبت۔
 المَكْتَلُ والمَكْتَلَةُ: کھجور کے پتوں کا بنا ہوا
 ٹوکرا جس میں پندرہ صاع آسکے۔ ج
 فَكَاثِلُ المَكْتَلِ: زمانہ کے مصائب میں
 سے ایک مصیبت۔
 الكَاتُوْلِيْكُ: رومن کیتھولک۔ عیسائیوں کا
 ایک فرقہ۔ کاتولیکی ج کٹاؤ
 لِيكِيُون (دخیل)
 كَتَمَ (ن) كَتَمًا وَكَتْمَانًا وَكَتْمًا وَكَتْمًا
 الشَّيْءُ: پوشیدہ کرنا۔ چھپانا۔ اور بھی کتم کا
 قعد یہ دو مفعول کی طرف ہوتا ہے اور کہا جاتا
 ہے كَتَمْتُ زَيْدًا العَيْدِيَّتْ (میں نے زید
 سے بات چھپائی) اور مفعول اول میں من
 کی زیادتی بھی ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے
 "كَتَمْتُ مِنْ زَيْدٍ العَيْدِيَّتْ كَتَمَ الشَّيْءُ"
 چھپانے میں مبالغہ کرنا۔ وَاكْتَمَ الشَّيْءُ:
 زرد ہونا۔

مکڑے کا ٹٹا..... القَرَسُ: گھوڑے کا چلنے
 میں موڑوں کو ہلانا۔
 تَكْتَفُ: بٹنے پر ہاتھ باندھنا۔ تَكْتَفُتِ
 السَّخِيْلُ: گھوڑوں کا چلنے میں کندھوں کو
 اٹھانا۔
 الكَيْفُ وَالكَيْفُ وَالكَيْفُ: شانہ۔ کندھا
 مَوْنُتْ: ج كَيْفَةٌ وَكَيْفٌ اور عرب کے
 امثال میں سے ہے "إِنَّهُ لَيَعْلَمُ مِنْ أَيْنَ
 نَسُو كَلُ الكَيْفُ" اس چالاک شخص کے حق
 میں بولتے ہیں جو امور کے گھات پیچ سے
 خوب واقف ہو۔
 الكَيْفُ: محس درویشانہ کی وجہ سے جانوروں
 کی لنگڑا ہٹ۔ شانہ کی کوتاہی۔
 الكُتَافُ: درویشانہ۔
 الكَيْفُ: خشکیں کسنے کی رسی۔ ج الكَيْفَةُ
 وَكَيْفٌ وَكَيْفٌ۔
 الكَيْفُ: فانا پسند کرنے والا۔
 الاكْتَفُ مِنَ السَّخِيْلِ وَالجَمَالِ: درویشانہ
 والا۔ مَوْنُتْ كُتَفَاءُ ج كُتَفٌ. الاكْتَفُ مِنَ
 الرِّجَالِ: مرد جس کے شانہ میں درد ہو۔
 مِّنَ السَّخِيْلِ: گھوڑا جس کا شانہ کے اوپر کا
 حصہ چوڑا ہو۔
 الكَيْفُ: لوہے وغیرہ کا چوڑا پتھر۔ چوڑی
 تلوار۔ ج كُتَفٌ۔
 الكَيْفَةُ: دروازے کی ٹلی۔ دروازے کی
 چٹنی۔ جماعت۔ کینہ۔ ج كُتَافٌ۔
 الكُتْفَانُ وَالكَيْفَانُ: بڑی جوہلی مرتبہ
 اڑے۔ واحد كَيْفَانَةٌ۔
 المَكْتَفُ: جانور جس کا شانہ زین سے زخمی
 ہو گیا ہو۔
 كَتَمْتُ الرِّجْلُ: بغیر قبضہ کے ہٹنا۔ (.....)
 وَكَتَمْتُ: آہستہ چلنا۔ چھوٹے چھوٹے
 قدم سے دوڑنا۔
 الكُتْمَاتُ: جلدی جلدی بولنے والا۔
 كَتَمَلَةُ (ن) كَتَمَلًا: قید کرنا۔ باز رکھنا۔
 كَجَلٍ (س) كَتَمَلًا: چھٹنا۔ صفت كَجَلٌ.....
 الجَمَارُ: گدھے کا زین پر لٹنے سے گرد

الذَّارِ جَمْعَاءُ كُتَفَاءُ" میں نے اس سارے
 گھر کو خرید لیا۔ "زَيْتٌ أَحْوَاتُكَ جَمْعٌ
 كُتْعُ" میں نے تیری ساری بہنوں کو دیکھا
 اور كُتْعُ: وصف اور عدل کی بنا پر غیر منصرف
 ہے اور كُتْعُ: کو جَمْعُ: پر مقدم نہیں کرتے
 اور بغیر جَمْعُ کے استعمال بھی نہیں کرتے۔
 اس لئے کہ یہ اس کے توابع میں سے ہے۔
 الاكْتَعُ: لہجہ۔ جس کی انگلیاں پتھلی کی طرف
 مڑی ہوئی ہوں۔ لفظاً جَمْعُ: کے توابع میں
 سے ہے اور بغیر جَمْعُ: کے استعمال نہیں کیا
 جاتا۔ کہا جاتا ہے "زَيْتُهُمْ أَجْمَعِينَ
 أَكْتَعِينَ" یعنی سب کو دیکھا۔ مَوْنُتْ كُتَفَاءُ
 الكُتَفَاءُ: باندی۔ لونڈی۔ تاکید مَوْنُتْ کے
 لئے جَمْعَاءُ کا تابع ہے۔ کہا جاتا ہے
 "اِسْتَرَيْتُ الذَّارِ جَمْعَاءُ كُتَفَاءُ" میں نے
 سارا مکان خرید لیا۔
 زَائِيٌ مَكْتَعٌ: قوی رائے۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ
 مَكْتَعًا وَمَكْتَعِيًّا" یعنی تیز رفتاری سے آیا۔
 كُتَفُ (ش) كُتَفًا وَكَيْفِيًّا: آہستہ چلنا یا
 کندھا ہلاتے ہوئے چلنا۔ کجاوہ کے دونوں
 کناروں کو ایک دوسرے کے ساتھ
 باندھنا۔
 فِى الاَمْرِ: نرمی برتنا۔ كُتَفًا
 وَكُتَافًا الرِّجْلُ: خشکیں کسنا۔ کندھے کے
 پیچھے ہاتھوں کو باندھنا۔ شانہ پر مارنا.....
 السَّرْحُ الذَّابَّةُ: زین کا کندھے کو زخمی کرنا
 الانساء: برتن کو لوہے وغیرہ کے پترے
 سے جوڑنا..... الاَمْرُ: ناپسند کرنا..... كُتَفًا
 وَكُتَفَانًا الطَّائِرُ: پرندہ کا بازوؤں کو پیچھے کی
 جانب ملا کر اڑانا۔
 كَيْفُ (س) كُتَفًا: چوڑے یا بڑے کندھوں
 والا ہونا۔ درد مند موٹا ہے والا ہونا۔
 كَيْفُ الرِّجْلِ: آہستہ چلنا۔
 كُتَفُ الرِّجْلِ: خشکیں کسنا۔ موٹوں کے
 پیچھے ہاتھوں کو باندھنا..... الانساء: برتن
 لوہے وغیرہ کے پترے سے جوڑنا.....
 اللّٰحْمُ وَنَحْوُهُ: گوشت کے چھوٹے چھوٹے

كُنْتُمْ (ن) كُتُومًا وَكُنْتُمْ اِلَانَاءُ: بننے سے روکے رکھنا۔

كُنْتُمْ مُكَاتِمَةَ السِّرِّ: چھپانا۔ کہا جاتا ہے كَاتِمَةُ الْعَدَاوَةِ: یعنی دشمنی کو چھپایا۔

كُنْتُمْ الرَّجُلَانَ الْحَدِيثِ: ایک دوسرے سے پوشیدہ رکھنا۔

اِنْكُتْمَ: چھپنا۔ اِسْتَكْتَمَ السِّرَّ فَلَانَا: مجھ پر چھپانے کو کہنا۔

الْبِكْمَةُ: پوشیدگی۔ الكُتْمُ وَالْكُتْمَانُ: دوسرے جس سے خضاب

بناتے ہیں اور اس کی جڑ کو جوش دے کر روشنائی تیار کرتے ہیں۔

الْكَيْتِمُ: فَا۔ کہا جاتا ہے سِرٌّ كُنْتِمُ بِمَعْنَى مَكْتُومٌ: یعنی چھپا ہوا مجھ پر پوشیدگی سے کمان ثابت و درست جس میں پھنسن وغیرہ

نہ ہو۔ الكُتْمَةُ: کتم کا اسم مرہ۔ کہا جاتا ہے مَنَا وَاجْعَلُهُ كُتْمَةً: میں نے اس سے ایک کلمہ

جواب میں نہیں کہا۔ الكُتْمَةُ وَالْكُتْمَانُ وَالْكُتْمَانَةُ: مجھ کو بہت

چھپانے والا۔ الكُتُومُ: مجھ کو چھپانے والا (.....) وَالْكَيْتِمُ

مِنَ الْقَيْسِيِّ: ثابت و درست کمان۔ یا وہ کمان جس سے آواز نہ نکلے۔ خَسْرُ كَيْتِمٍ:

درز جو کشادہ نہ ہو اور پانی نہ نکلے۔ الاكْتِمُ: بڑے پیٹ والا۔ عِلمُ سِرِّ:

المُكْتِمِ: فَا۔ سَخَابٌ مُكْتِمٍ: ہادل جس میں گرج نہ ہو۔

كَيْتِنِ (س) كُنْتَا. الوَسْخُ عَلَيَّ الشَّيْءِ: میل کا چسپاں ہونا..... الشَّيْءِ: میل پھیل گنا.....

وَهُوَ مِسٌّ سِيَاهٌ هُونًا..... النَّخْلَةُ: درخت خرما کی جڑوں پر مٹی چڑھ جانا..... فَلَانٌ:

سیاہ لب ہونا۔ كُنْتَنُ وَكُنْتِنُ الشَّيْءِ: چپکانا۔

تَكُنْتَنِي الشَّرَافَةُ: برقع دستانے اور موزے پہننا۔

الْكُنْتَنُ: ہونٹ کی سیاہی۔ دیوار کی دھوئیں کی

وجہ سے سیاہی۔ میل پھیل۔ جس پیدگی۔ کھجور کی جڑ کی مٹی۔

الْكُنْتَنُ وَالْكُنْتِنُ: پیالہ۔ سِقَاءٌ كُنْتِنٌ: میلی پکلی مشک۔

الْكُنْتَانُ: اسی کا پودہ۔ السُّنْتَانُ: سبز کائی۔ کہا جاتا ہے "لَبَسَ الْمَاءُ كُنْتَانَهُ": یعنی پانی کائی

والا ہو گیا۔ الْكُنْتَانِيَّاتُ: ایک فصل جو کہ اسی کے ساتھ

مشابہت رکھتی ہے اس کی ایک قسم بڑے پھولوں والی زرد رنگ شے کی طرح اکتھے۔

زيب وزينت کے لئے لگایا جاتا ہے۔ الكُتُونَةُ: کاہن کی قمیص جس کو زیوٹی کے

وقت کیڑوں کے نیچے پہنتا ہے۔ (دخیل) الْكُنْتَانُ: بھٹل۔

كُنْتَا يَكْتُونُ كُنْتَا: چلنے میں قریب قریب قدم رکھنا۔

اَكْتُنِي اِكْتَانًا: دشمن پر غالب آنا۔ اَكْتُونِي اِكْتِيَانًا: غصہ سے بھر جانا۔ بغیر

عمل کے اپنی آپ تعریف کرنا۔ كُنْتُ (ش) كُنْتَانَةٌ وَكُنْتُونَةٌ وَكُنْتُ (س)

كُنْتَا: گاڑھا ہونا..... الشُّعْرُ: بالوں کا گھنا ہونا..... السُّلْحِيَّةُ: داڑھی گھنی اور گھنگھریالی

ہونا..... بِسَلْحَةٍ: پاخانہ کرنا۔ اَكْتُ الرَّجُلُ: گھنی داڑھی والا ہونا۔

صفت كُنْتُ. ج كُنْتَا وَاَكْتُ مَوْنَثُ كُنْتَا. ج كُنْتُ.

الْكُنْتُ وَالْكُنَيْتُ: گھنی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ كُنْتُ السُّلْحِيَّةِ وَكُنَيْتُهَا": وہ گھنی داڑھی والا ہے۔ "وَأَمْرَاةٌ كُنْتُةٌ وَكُنْتَا": گھنے بال والی

عورت۔ الكُنْتُ: میلا پکچلا۔ الكُنَيْتُ: سن وغیرہ کا بار یک دھاگا جو بکھر

جائے۔ الكُنْتُ: کئی ہوئی گھتی کے دانوں سے جو دوبارہ اُگ آئے۔

كُنْتَا (ف) كُنْتَا وَكُنْتَا تَكْنِيَةُ اللَّبْنِ وَنَحْوَهُ: دودھ کا پانی کے اوپر اور پانی کا نیچے آنا.....

الْقِدْرُ: ہانڈی کا جھاگ دینا..... اللَّبْحِيَّةُ:

داڑھی لمبی اور گھنی ہونا..... السَّرْبُوعُ: بھتی کا سخت اور گنجان ہونا..... الْقِدْرُ: ہانڈی سے

جھاگ علیحدہ کرنا..... السَّرْبُوعُ: بالائی کھانا..... أَوْبَارُ الْإِبِلِ: اونٹ کے بال کا ٹکنا۔

اَكْتَابَ اللَّحْيَةَ: داڑھی گھنی اور لمبی ہونا۔ الكُنْفَةُ وَالْكُنْفَةُ مِنَ اللَّبْنِ: بالائی۔

..... مِنَ الْمَاءِ: پانی کی سطح پر جو آ جائے۔ کہا جاتا ہے "نَحَدُ كُنْفَةَ قَدْرِكِ": اپنی ہانڈی

کے جھاگ علیحدہ کرو۔ الصَّيْدُ فَلَانَا: شکار کا قریب ہونا۔ کہا

جاتا ہے "كُنْفَكَ الصَّيْدُ فَارْمِهِ": شکار تمہارے قریب آ چکا ہے تیر چلاؤ۔ جَاءَ يَكْنِيَةً: وہ اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ كُنْفَ لَبْنِ النَّاقَةِ: اونٹنی کا دودھ کم ہوا۔

كُنْفَ الشَّيْءِ: کم ہونا۔ كُنْفَ الْقَوْمِ: قوم سے قریب ہونا۔

اَكْتَبَ الرَّجُلُ وَالْيَهُ وَمَنْهُ وَلَهُ: قریب ہونا۔ فَلَانَا: تمہوڑا دودھ یا پانی پلانا۔

اِنْكُنْفَ الرَّجُلُ: ریت کا ڈھیر ہونا۔ اِنْكُنْفَ: قریب۔ کہا جاتا ہے "زَمَاهُ مِنْ كُنْفِ اَوْ عَنِ كُنْفِ": یعنی اس نے اس کو

نزدیک سے مارا۔ الكُنْفِيَّةُ: تمہوڑا پانی یا دودھ۔ تہوڑی اکتھنی

چیز۔ پہاڑوں کے درمیان کی پست زمین۔ ج كُنْفَ:

الكُنْفِيَّةُ: كِتَابٌ: کامونٹ..... مِنَ الْقُرْسِ: گھوڑے کی پیٹھ کا بالائی حصہ۔ ج كُنْفَاتٍ:

الْكُنْفَاتُ: بہت۔ الكُنْفَاتُ وَالْكُنْفَاتُ: بے پیکان و بے پر کا

تیر۔ الكُنْفِيَّةُ: ریت کا ٹیلہ۔ ج كُنْفُ وَكُنْفَانِ وَالْكُنْفِيَّةُ:

الْكُنْفِيَّةُ: مٹی۔ كُنْفِج (ض) كُنْفَجَا: مِنَ الطَّعَامِ: بتدر

کفایت کھانا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ غلہ بہت لے جانا۔

كُنْفِج (ض) كُنْفَجَا: مِنَ الطَّعَامِ: بتدر کفایت کھانا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ غلہ

بہت لے جانا۔ الْقِدْرُ: ہانڈی کا جھاگ دینا..... اللَّبْحِيَّةُ:

کُتِّخَ (ف) کُتِّجَا الشَّيْءُ: جمع کرنا۔
کھیرنا۔ کُتِّخَتِ الرِّيحُ الفُرابَ عَلَیْهِ:
غبارِ اُنا۔ کُتِّخَ مِنَ السَّالِ: خواہش کے
موافق لینا (.....) و کُتِّخَ (عَنْ كَذَا): ننگا
کرنا۔ کہا جاتا ہے "کُتِّخَتِ الرِّيحُ" یعنی اس
کو ہوائے ننگا کر دیا۔

تُكَاثِرُ القَوْمَ بالسُّيُوفِ: تلوار بازی کرنا۔
تُكْتِخُ بِالْحَصَى: جگت ننگریوں سے
مارنا۔

الْكُفَّةُ مِنَ النَّاسِ: چھوٹی سی جماعت۔
رَجُلٌ كُتِّخَ مِنَ اللَّيْحَةِ: گھنی اور چھوٹی اور
گھنگھریالی داڑھی والا مرد۔ كُتِّخِمَةُ مِنَ
ذَرِينِ: خشک چارے کا چورہ۔ لَيْحِيَّةٌ
كُتِّخِمَةٌ: گھنی چھوٹی اور گھنگھریالی داڑھی۔

كُتِّرَ (ك) كُتِّرَةٌ وَكُتَّارَةٌ: بہت ہونا۔
صفت كُتِّرٌ وَكُتِّيرٌ وَكُتَّارٌ وَكُتَّيرٌ.
كُتِّرَ (ن) كُتِّرًا: السَّرْجُلُ: کثرت میں
غالب ہونا۔

كُتِّرَةٌ: زیادہ کرنا۔
أَكْثَرَ الرَّجُلُ: بہت مالدار ہونا۔ بہت لانا۔
..... الشَّيْءُ: بہت کرنا۔ بہت شمار کرنا۔ بہت
پانا..... النَّخْلُ: درخت خرما کا شگوفہ دار
ہونا۔ کہا جاتا ہے "أَكْثَرَ اللَّهُ فِينَا مَيْلَكَ"
اللہ تعالیٰ تمہارے جیسے کو ہمارے اندر زیادہ
کرے۔

كَاتَرَةٌ: کثرت میں غالب آنا۔ کثرت مال یا
کثرت عدد پر فخر کرنا۔ كَاتَرُ المَاءِ: پینے
کے لئے پانی زیادہ چاہنا۔

تَكْتَرُ بِمَالٍ غَيْرِهِ: دوسرے کے مال سے غنی
ہونا..... مِنَ الشَّيْءِ: بہت لے لینا.....
بِالْغَلَامِ: بہت گھنگھرو کرنا..... فَلَانٌ: کثرت کا
وکھلاوا کرنا۔

تَكَاثَرَ القَوْمُ: کثیر ہونا۔ کثرت میں ایک
دوسرے پر غالب کرنا..... الشَّيْءِ: بہت سمجھنا۔
إِسْتَكْتَرَ الشَّيْءُ: بہت سمجھنا یا بہت شمار کرنا
..... مِنَ الشَّيْءِ: بہت کرنا۔ بہت کی رغبت
کرنا۔

الْكُفْرُ وَالْكُفْرُ: بہت۔ كُفِرَ الشَّيْءُ: چیز کی
بہتات۔ کہا جاتا ہے "أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَيَّ
الْقَلْبِ وَالْكُفْرِ" قلت و کثرت پر اللہ ہی کا
شکر ہے۔

الكُثْرَةُ: بہتات۔ زیادتی۔
السَّكْبَةُ: کثرت لُحَّ كَافٍ میں ایک لغت
روسیہ ہے۔ مگر بعضوں نے کہا ہے کہ اگر لفظ
قلت کے ساتھ مستعمل ہو تو صحیح ہے جیسا کہ
کہا جائے القِلَّةُ وَالْكَثْرَةُ.

الْكُفْرِيُّ مِنَ التَّبِيدِ وَنَحْوِهِ: نبیذ وغیرہ کی
زیادتی۔

الْكُثِيرُ: بہت۔ کہا جاتا ہے رَجُلٌ كَثِيرٌ
وَكَثِيرَةٌ وَكَثِيرُونَ. وَنِسَاءٌ كَثِيرٌ
وَكَثِيرَةٌ وَكَثِيرَاتٌ: اور کہا جاتا ہے "كَثِيرًا
مَا يَفْعَلُونَ كَذَا" (بہت سے اس طرح نہیں
کرتے) ظرفیت کی بنا پر منصوب ہے اس
لئے کہ احیان کی صفت ہے اور ماتا کید کے
لئے ہے اور بعضوں نے مفعول مطلق ہونے
کی وجہ سے منصوب کہا ہے اور ما کو مبالغہ فی
الکثرت کے لئے مانتے ہیں۔

الْكُثَارُ: بہت (.....) وَالْكَثَارُ: جماعتیں۔ کہا
جاتا ہے "فِي السَّارِ كُثَارٌ أَوْ كُثَارٌ مِنَ
النَّاسِ" یعنی گھر میں لوگوں کی جماعتیں ہیں
اور صرف جانداروں ہی کے لئے مستعمل
ہیں۔

الْكُثِيرُ: بہت فیاض مرد۔
الْمُكْتَبِرُ: مالدار۔
السَّكْبَاتُ وَالْمَيْكُتِيرُ: بہت بولنے والا (نذر
ومؤنث)

السَّكْفُورُ: مفتح۔ مغلوب۔ وہ شخص جس پر
بہت سے آدمی اکٹھے ہو جائیں اور دبا لیں۔
وہ شخص جس کا سرمایہ ختم ہو جائے اور لوگوں
کے حقوق و مطالبات بہت زیادہ ہو
جائیں۔

كُتِّعَ (ف) كُتِّعَا اللَّبْنُ: دودھ کا گاڑھا اور
بالائی والا ہونا۔

كُتِّعَتْ (ف) كُتِّعُوا الغَنَمَ: بکری کا نرم

پیٹ والی ہونا۔ پیٹ چلنے والی ہونا۔
كُتِّعَتْ (ف) كُتِّعَا وَكُتِّعُوا وَكُتِّعَتْ
(س) كُتِّعَا الشَّفَةَ: ہونٹ کا بہت خون والا
ہونا یہاں تک کہ اُلٹنے کے قریب ہو
جائے۔ ایسے ہونٹ کو كُتِّعَتْ: اور ایسے
ہونٹ والے کو كُتِّعَ: کہتے ہیں۔

كُتِّعَ اللَّبْنُ أَوْ الغَنَمَ: بمعنی كُتِّعَ: كُتِّعَتْ
الأَرْضُ: روئیدگی کا ظاہر ہونا..... السَّقْدَرُ:
ہانڈی کا جھاگ پھینکنا..... السُّجُوحُ: زخم کا
اوپر کا حصہ اچھا ہونا..... لِحْيَةُ فَلَانٍ: داڑھی
لبی اور گھنی ہونا۔

فَلَانُ السَّقَاءِ: مشکیزہ کی اوپر کی چکناہٹ کو
کہتا۔

السُّعْفَةُ وَالْكُثْفَةُ: بالائی۔ ہانڈی کی
جھاگ۔ السُّعْفَةُ: اوپر کے ہونٹ کے
درمیان کا گڑھا۔

السُّعْفَةُ: گارا۔ کچڑ۔
السُّكْفِيعُ: فَا: إِسْرَامَةٌ مُكْفِيعَةٌ: ہونٹوں یا
سوزوں میں بہت خون والی عورت۔

السُّكْفِيعُ: بیٹا اور بقول بعض تیندوا۔
كُتِّفَ (ف) كُتِّفَا وَكُتِّفَ: مونا ہونا۔
بہت ہونا۔ گنجان ہونا۔ صفت كُتِّيفٌ.
كُتِّفَةٌ: مونا کرنا۔

أَكْتَفَ مِنْهُ: قریب ہونا۔ قدرت دینا۔
إِسْتَكْتَفَ الشَّيْءُ: گاڑھا ہونا..... الشَّيْءُ:
گاڑھا پانا۔ گاڑھا شمار کرنا..... الأَمْسَرُ: بلند
ہونا۔

السُّكْفِيفُ: بیڑی جو کہ ساکن بجلی کے ساتھ
چارچ ہوتی ہے ریڈیو اور ٹیلیفون وغیرہ کے
آلات کے لئے ہے۔

السُّكْفُ: جماعت۔
السُّكْفِيفُ: گاڑھا۔ مونا۔ کہا جاتا ہے رَجُلٌ
كُتِّيفٌ: یعنی سخت اور بد حالی کی زندگی بسر
کرنے والا مرد (.....) وَالْكَثْفُ: بہت۔

كُتِّلَ (ن) كُتِّلَا الشَّيْءُ: جمع کرنا۔
الْكُتْلُ: گروہ۔ گہبوں کا انبار۔
الْكُوْتُلُ وَالْكُوْتُلُ: دنبال کشتی۔

الکائولیک: دیکھے گاتولیک۔ کَنَم (ض) کَنَمًا الشی: جمع کرنا..... الاقر: تا بعد اری کرنا۔ پیروی کرنا..... الشی: منہ میں رکھ کر توڑنا..... عین الامر: باز رکھنا۔ کَنِم (س) کَنَمًا: شکم سیر ہونا۔ بڑے پیٹ والا ہونا۔ صفت اکنم۔ کَانَمَ: قریب آنا۔ میل ملاپ کرنا۔ اکنم البسرة: منگ بھرنا..... فی بیثہ: رد پوش ہونا۔ اکنم الصید: شکار کا قریب ہونا اور موقع دینا۔ تکنم: حیران ہونا۔ توقف کرنا۔ چھپنا۔ اکنم: غمگین ہونا..... عن وجہ کذا: پھر جانا۔ الکیم والکائم من الطین ونحوہ: گاڑھا کچھ وغیرہ۔ کنم الطريق: راستہ کا ظاہری حصہ۔ کہا جاتا ہے "زماہ عن کنم" اس نے اس پر نزدیک سے تیر مارا۔ الاکنم: کشادہ راستہ۔ "وطلبت اکنم" بھرا ہوا دودھ کا برتن۔ الکنتہ: جلد ست۔ پھولوں کی ٹوکری۔ الکح: خالص۔ کہا جاتا ہے "هو عربی" کح: وہ خالص عربی ہے۔ کحب الکرم: کچا انگور ظاہر ہونا۔ الکحج: کچا انگور واحد۔ کحجہ: ڈبر۔ الکحاجب: بہت۔ کہا جاتا ہے "عندہ ذراہم کحاجبہ" اس کے پاس بہت ذراہم ہیں۔ الکحاجبہ: آگ کا شعلہ بلند ہو۔ کحح (ف) کححًا لہ من القال: دونوں ہاتھوں میں بھر کر مال دینا۔ کححص (ف) کحوصًا الاقر: نشان مٹانا۔ الظلم: شرمسٹ کا زمین میں اس طرح جانا کہ دکھائی نہ دے..... الرجل: پشت دے کر بھاگنا..... کححصا البلی فلان: مٹانا۔ چھو کرنا۔ بسر خلیہ: پاؤں سے کریدنا..... الارض: زمین سے غبار اڑانا..... الشی: کوشا.....	کححصا وکححص: الاقر: نشان مٹانا۔ الکحاحص: فا۔ پیر سے کریدنے والا۔ مؤنث ج کحاحصہ۔ کحاحص. اطلال کحاحص: مکان کے مٹے ہوئے نشانات۔ کحخط (ف) کحخطًا الغام: خشک سالی ہونا۔ صفت کحخط۔ الکحخوف: جسم کے اعضاء۔ کحخج: عاجز کرنا۔ کححل (ف ن) کححلًا وکحل الغین: آنکھ میں سرمہ لگانا..... فلانسا: دوسرے کی آنکھ میں سرمہ لگانا۔ صفت کححل وکححل اور کہا جاتا ہے کحل السہاد عنہ: کنا یہ ہے بے خوابی سے۔ کحل (ف) کحلًا وکحل الغام: سخت خشک سالی ہونا۔ کحلت السنون القوم: قح للاحق ہونا۔ کحل واکحل وکحل واکحل: واکحل مکان بالخضرۃ: ابتدائی سبزی والا ہونا۔ کحلت (س) کحلًا واکحلت الغین: آنکھ کا سرگیں ہونا۔ وکحل الرجل: سرگیں آنکھ والا ہونا۔ کحل واکحل: آنکھوں میں سرمہ لگانا۔ اکحل فلان: نرمی کے بعد سختی میں پڑنا۔ اکحل السہاد: بیدار رہنا اور نیند کا اچٹ جانا..... وجہہ بالہم: چہرہ پر غم کا اثر ظاہر ہونا اور کہا جاتا ہے "ما اکحلت عینی بک" یعنی میں نے تم کو نہیں دیکھا۔ الکحل: مصل۔ سخت قح کا سال (کلمہ غیر منصرف ہے) کحل وکحل وکحل: تینوں کلمات غیر منصرف ہیں۔ آسان کے اسم ہیں۔ کہا جاتا ہے "صرت کحل" جبکہ بالکل بادل نہ ہو۔ الکحل: سنگ سرمہ۔ مال کثیر۔ الکحل: خلقت آنکھوں کا سرگیں ہونا۔ الکحل: سنگ سرمہ دوسرہ..... والکحل	والکحلہ) مہرہ تعویذ اور بقول بعض مہرہ نظر بد۔ عین کحل وکحل وکحل: سرگیں آنکھ ج کحلی وکحالی۔ اعین کحلہ: سرگیں آنکھیں۔ الکحیل: نطف۔ قطران۔ الاکحل: مرد سرمہ لگا ہوا۔ بازو کی ایک رگ کا نام۔ الکحلہ: الاکحل کا مؤنث۔ وہ عورت جس کی آنکھیں بہت سیاہ ہوں۔ سفید جسم اور سیاہ آنکھوں والا مینڈھا۔ ج کحل الکحلہ والکحیل: گاؤزبان۔ الکحلی: سرمہ بنانے والا۔ الکحل والکحل: سرمہ کی سلائی۔ المکحلہ: سرمہ دانی۔ المکحلہ: پھول کی ایک قسم جس کا رنگ نیلا اور عمدہ خوشبو ہوتی ہے۔ لبنان اور ہالینڈ میں پیدا ہوتا ہے۔ الکحمة: آنکھ۔ کحی کحی کحی الشی: خراب ہونا۔ تباہ ہونا۔ کح (ض) کحًا وکحیًا فی نومیہ: خرائے لینا۔ کحمة (ف) کحمًا: ہٹانا۔ دفع کرنا۔ الکحیم: بڑا۔ کح (ن) کحًا: کام میں محنت کرنا۔ روزی طلب کرنا۔ انگلی سے اشارہ کرنا۔ مانگنے میں انصرار کرنا..... الرجل: تھکانا..... الراس: سر میں کچھی کرنا یا خوب کھلانا..... الشی: ہاتھ سے چھین لینا۔ کحده: سختی سے ہٹانا۔ تکده: مشقت برداشت کرنا۔ اکد واکد: کجوسی کرنا۔ بکل کرنا۔ واکد الشی: ہاتھ سے چھین لینا۔ اکدہ وامتکدہ: کام میں محنت کرانا۔ الکد: مصل۔ جس میں کوئی چیز کوئی جانے جیسے ہاون۔ کہا جاتا ہے "لیس ہذا من
---	---	--

کَذِبَکَ وَلَا کَذِبَ اَیْکَ“ یعنی یہ تمہاری محنت و کوشش سے حاصل نہیں ہوئی۔

الْکَذْبَةُ وَالْکَذِیْبُ: سخت زمین۔ الِکَذِیْبُ: موٹا موٹا پتلا ہوا نمک۔ زمین۔ شکم فراخ۔

الْکَذَاةُ وَالْکَذْدَةُ وَالْکَذْدَةُ: ہانڈی کا باقی ماندہ کھانا۔ ہانڈی کی کھرچین۔

کَذَاوَةُ السَّمَنِ: گھی کا تلچھٹ۔ کَذَاوَةُ الْکَلَا: تھوڑی گھاس۔

الْکَذُوْدُ: بہت محنتی۔ بخیل۔ بے سُر کُذُوْدُ: کنواں جس کا پانی مشکل سے نکالا جائے۔

الْاِکْذُوْدُ: چری ہوئی چراگاہ کا بقیہ۔

قَوْمٌ اُکْذَادٌ وَاکْذَابُیْدٌ: شکست خوردہ قوم (ان کے لئے واحد نہیں) اور کہا جاتا ہے ”رَأَيْتُهُمْ اُکْذَاذًا وَاکْذَابُیْدًا“ میں نے ان کو گروہوں میں دیکھا ”وَابِلٌ اُکْذَادٌ“ تیز چلنے والا اُونٹ۔

الْمِکْذُ: گھی۔

الْمِکْذُوْدُ: مٹح مطلوب۔ اَرْضٌ مِکْذُوْدَةٌ: کھروں سے روئندی ہوئی زمین۔

کَذًا وَاکْذِیْبًا (ف س) کَذْوَةٌ اَوْ کُذُوْدٌ اَلنَّبْتُ: نباتات کا سردی کی وجہ سے مرجھانا یا پانی نہ پینے کی وجہ سے نہ بڑھنا۔

کِذِی (س) کَذًا الْغُرَابُ: کوئے کا تے کرنے جیسی آواز نکالنا۔ الْبَقْلُ: چھوٹا ہونا اور تباہ ہونا۔ الْاِبِلُ: اُونٹ کا کم بال والا ہونا۔

کَذًا وَاکْذًا الْبُرْدُ النَّبَاتُ: زمین پر بٹھارینا اور اُگنے نہ دینا۔

اَرْضٌ کَسَادَةٌ: دیر سے اُگنے والی یا اُگنے والی زمین۔ اِبِلٌ کَسَاوَةٌ الْاَدْبَارُ: کم بال والے اُونٹ۔

الْکَذِبُ وَالْکَذْبُ وَالْکَذِبُ: کذب جو انوں کے ناخن کی سپیدی واحد کَذْبَةٌ. دَمٌ کَذِبٌ: تازہ خون۔

کَذِیْخٌ (س) کَذَجَا الرَّجُلُ: بقدری کفایت پینا۔

کَذِیْخٌ (ف) کَذَجَا فِی الْعَمَلِ: محنت کرنا۔

مَشَقَّتْ اُشْمَانًا۔ کُذِیْخٌ لِعِیَالِهِ: کمائی کرنا۔

رَأَسَهُ بِالْمُشْطِ: گھسی سے سر کے بالوں کو علیحدہ علیحدہ کرنا (.....) وَکَذِیْخٌ الْوَجْهَ: چہرہ پر خراش لگانا۔ چہرہ کو نوچنا۔

اِکْذَخَ لِعِیَالِهِ: کوشش کرنا۔ کمائی کرنا۔

نَکَذَخَ الْجِلْدُ: خراش لگانا۔ کہا جاتا ہے ”وَقَعَ مِنَ السَّطْحِ فَتَکْذَخَ“ چھت سے گر پڑا پس خراش لگ گئی۔

الْکَذِیْخُ: مہس۔ خراش۔ ج کُذُوْحٌ. کُذِرَ (ن) وَاکْذَرَ (ک) وَاکْذِرَ (س) کَسَرًا وَاکْذَاوَةً وَاکْذُوْرًا وَاکْذُوْرَةً وَاکْذُوْرَةً: تیرہ گوں ہونا۔ مٹیالا ہونا۔ گدلا ہونا۔ کہا جاتا ہے ”کُذِرَ عَلٰی فُلَانٍ“ غضبناک ہوا۔ کُذِرَ الْعِیْشُ: زندگی تلخ ہوئی۔

کُذِرَ الشَّیْءُ: تیرہ گوں کرنا کہا جاتا ہے ”کُذِرَ عِیْشُ فُلَانٍ“ فلاں کی زندگی تلخ کر دی۔

تَکْذَرَ وَاکْذَرَ الشَّیْءُ: تیرہ گوں ہونا۔ اِنْکَذَرَ فِی السَّیْرِ: تیز دوڑنا۔ عَلَیْهِ الْقَوْمُ: قوم کا کسی پر ٹوٹ پڑنا۔ اِنْکَذَرَتْ النُّجُومُ: بکھر جانا۔

الْکُذْرَةُ: مہس۔ مِنَ الْاَلْوَانِ: مٹیالا۔ الْکُذْرَةُ مِنَ الْحَوْضِ: نیچڑیا کائی۔ کئی ہوئی کھیتی کا ایک مٹھاج کُذْرٌ (.....) وَالْکُذْرَى وَالْکُذْرَةُ (ی) پتلا بادل۔

الْکُذْرُ وَالْکُذْرُ وَالْکُذْرُ مِنَ الْعِیْشِ اَوْ الْاَلْوَانِ وَغَیْرِ ذَلِکَ: غیر صاف۔ تکلیف دہ۔

الْکُذْرُ: موٹا قوی گھسے بدن کا جوان۔ حِمَارٌ کُذْرٌ: موٹا گدھا۔ مَوْنَتْ کُذْرَةٌ: موٹا گدھا۔ مَوْنَتْ کُذْرَةٌ: موٹا گدھا۔

الْکُذَاوَةُ: ہانڈی میں گھی کا تلچھٹ۔

الْاِکْذَرُ: مٹیالا۔ مَوْنَتْ کُذْرَاءُ: ج کُذْرُ: سخت سیلاب۔ عِیْشٌ اِکْذَرٌ: تلخ زندگی۔

کَذَسَهُ (ض) کَذَسْنَا وَاکْذَسْنَا: دفع کرنا۔ ہٹانا۔ کَذَسَ بِهِ الْاَرْضُ: پچھاڑنا۔

کَذَسَتْ الذَّابَّةُ: چوپائے کا چھینکنا۔

السَّمْفَقْلُ فِی سَبْرِهِ: گرا بنا را آدی کا دوڑنا۔ الْغِیْلُ: گھوڑوں کا چلنے میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھنا (.....) کَذَسْنَا) بدفالی لینا (.....) وَکَذَسَ (الْحَصِیْبَةُ: کئی ہوئی کھیتی کا ڈھیر ایک دوسرے کے اوپر لگانا۔

نَکَذَسَ: ڈھیر کا ایک دوسرے کے اوپر ہونا۔ تَکَذَسَتْ الْغِیْلُ: گھوڑوں کا چلنے میں ایک دوسرے پر چڑھنا۔ تَکَذَسَ السَّمْفَقْلُ: کندھے ہلاتے ہوئے دوڑنا۔ سینہ اُٹھار کر چلنا۔ الْفَرَسُ: گھوڑے کا گرا بنا ہونے کی مانند چلنا۔

الْکُذْسَةُ وَالْکُذْسُ: جانوروں کی چھینک اور کبھی انسان کے لئے استعمال کیا جاتا ہے وَالْکُذْسُ مِنَ الشَّلْحِ اَوْ الْحَصِیْبِ وَمَا اُتْبَهَ: برف یا کئی ہوئی کھیتی کا ڈھیر اور جوان کی طرح ہو۔

الْکُذْسُ ج اُکْذَسَ وَالْکُذْسُ ج اُکْذَسَ: کئی ہوئی کھیتی کا ڈھیر۔ اُکْذَسَ الرَّمْلُ: ریت کا تہہ ڈھیر۔

الْکُذْسَةُ: ایک دوسرے پر جمع کیا ہوا ڈھیر۔

الْکُذْسُ: قا۔ جس سے بدفالی لی جائے۔ ج کُذُوْدِسُ۔

السَّمْتُکَادِسُ: قا۔ مِنَ الشَّجَرِ: گھنجان و رخت۔

کَذَسَهُ (ض) کَذَسْنَا: خراش لگانا۔ تلواریا نیزہ سے مارنا۔ سختی سے ہٹانا۔ کائنا۔ ہانکنا۔ ہٹانا۔ کَذَسَ لِعِیَالِهِ: حیلہ کرنا اور محنت مشقت سے کمائی کرنا (.....) وَاکْذَسَ (اِکْذَسَ) مِنْ فُلَانٍ عَطَاءً: حاصل کرنا وَاکْذَسَ بِخَبْرٍ: تھوڑی سی خبر دینا۔

تَکَذَسَ الرَّجُلُ: پیچھے سے دھکا دینے جانے کی وجہ سے گرنا۔

الْکُذْسُ: زخم۔ کہا جاتا ہے ”جِلْدٌ کُذْسٌ“ خراش زدہ کھال۔

الکذاش: بہت کمائی کرنے والا۔ باصرار
مانگنے والا۔
تکذعہ (ف) کذعًا: ہٹانا۔ دفع کرنا۔
الکذاعة: ذلیل و زسوا۔
أكذف الفرس: گھوڑے کی ٹاپ کی آواز
سنائی دینا۔
الکذفة: ٹاپ یا چاپ کی آواز۔
تکذت الرجل: زور سے ہٹنا۔ چلنے میں
گرا ہار ہونا۔ حملہ کرنا۔ تکذت
وتكذت: سختی سے ہٹانا۔
الکذاسة: مہس۔ سخت چیز پر کسی چیز کے
مارنے کی آواز۔
دم (ض) ان کذمتا: اگلے دانتوں سے کاٹنا
..... الضیفة: شکار کو بھاگانا۔ کہا جاتا ہے
"تکذم فی غیر مکذم" بے موقع طلب کیا۔
کذمت الذبابة الخبيث: چوہائے کا
گھاس پراچی طرح سے قادر نہ ہونا۔
أكذم الیسیر: قیدی کو مضبوط باندھا جانا۔
تکاذموا: بالافواه: ایک دوسرے کو دانت
کاٹنا۔
الکذم: مہس۔ اثر۔ انسان۔ رج مکذوم۔
الکذم: دانت کاٹنے کا نشان۔
الکذم: دانتوں سے بہت کاٹنے والا۔ بہت
لڑاکا۔ سبزسروالی کالی ہڈی۔ واحد کذمة۔
الکذمة: کذم: کا ام مرۃ۔ داغ نشان۔
الکذمة: حرکت۔
الکذوم والکذام: دانت کاٹنے والا۔
الکذام: گھاس کی جڑیں جو پانی پڑنے کے
بعد پھراگ آئیں۔ بوڑھا مرد۔
الکذامة: کھائی ہوئی چیز کا بقیہ۔ دانت سے
کاٹ کر علیحدہ کیا ہوا۔
الکذامة والکذام: کھائی ہوئی چیز کا بقیہ۔
المکذم: دانت کاٹنے کی جگہ۔
المکذم: من الجبال والاکمسیة: مضبوط
مٹی ہوئی۔ قدح مکذم: موٹے دل کا شیشہ
کا پیالہ ایسیس مکذم: رستی سے بندھا ہوا
قیدی۔

المکذم: دانت سے کاٹا ہوا۔ رجل مکذم:
جنگ کا زخمی شدہ۔
تکذن (ن) کذنا: بالفوق: پکا باندھنا۔
الکذن والکذن: کپڑا جس کو عورت پردہ
میں رہتے ہوئے پہنے۔ پاکلی۔ کجاوہ۔ جانور
کی ٹانگ کی کھال جس کو دباغت دینے کے
بعد دوا وغیرہ کوٹنے کے استعمال میں لاتے
ہیں ج کذون۔
تکذن یکذن العذبان: زراعت کے لئے دو
تیل اکٹھے چلانا۔
الکذنة: کوبان۔
الکذنة والکذنة: چربی اور گوشت کی
کثرت۔
الکذانة: نااہلی۔ فرومانگی۔
الکذین: بہت چربی اور گوشت والا۔ مؤنث
تکذنة ج کذنات۔
الکذن: میلا۔
الکذان: نرم پتھر (اور یہ کذان کی تحریف
ہے)
الکذانة: نرم پتھر کا ٹکڑا۔
تکذة (ف) کذعًا وکذہ: الشی: توڑنا۔
..... بالحجر: سخت پتھر سے رگڑنا۔ غلیہ:
غالب ہونا۔ ہ الہم: مشقت میں ڈالنا۔
کہا جاتا ہے "هُوَ مَكْذُومٌ مِنَ الْهَمِّ" وہ ہم کی
وجہ سے ٹھکنے ہے۔
..... لاهله: مشقت سے کمائی کرنا۔ خفرة
بالمسقط: بالوں میں کھسکی سے مانگ نکالنا۔
تکذة: ٹوٹنا۔
الکاذہ: فا۔ توڑنے والا۔ رج مکذہ۔
الکذہ: مہس۔ خراش۔ پتھر کی رگڑ کا اثر۔ رج
مکذوہ۔
کذبا یکذو کذوا وکذوا: الزرع: خراب
فصل ہونا۔ الارض: دیر سے اگانا۔
کذاة (م) الشی: کاٹنا۔ منع کرنا۔
تکذی یکذی کذی بالعظم: ہڈی کا گلے
میں اٹکنا۔ المسک: بے خوشبو ہونا۔
صفت کب وکذی: تکذیت اصابعہ:

الکذیوں کا کھونے کی وجہ سے ٹھکانا۔
تکذی تکذیا: مشقت برداشت کرنا۔
تکذی تکذی کذیا الرجل: روکنا۔
مشغول کرنا۔ الوجہ: چہرے میں خراش
لگانا۔ الرجل: دینے میں بخل کرنا۔
أکذی اکذاء الرجل: حاجت میں نا کام
رہنا۔ دینے میں بخل کرنا۔ اکذاء عن کذا:
باز رکھنا۔ منع کرنا۔ اکذی الضعدن: جو ہرنہ
بنانا۔ الحافیر: کھودتے کھودتے سخت زمین
پر پانچنا اور آگے کو نہ کھود سکتا۔ کہا جاتا ہے
"سأله فساكذی" یعنی اس نے اس سے
سوال کیا تو اس کو سخت زمین کی مانند پایا۔
النبت: سردی کی وجہ سے چھوٹا ہونا۔
العمام: خشک سالی ہونا۔ المسطر: بارش کم
ہونا۔ الرجل: غنا کے بعد محتاج ہونا۔
تکذی تکذیة: سوال کرنا۔ خیرات مانگنا۔
تکذی تکذیا: عطیہ طلب کرنا۔
الکذیة: سخت ٹھوس زمین۔ بڑی سخت
چٹان۔ رج مکذی۔ الکذیة: طلب عطیہ۔
باصرار مانگنے کا پیشہ۔ زمانہ کی سختی۔ (.....)
والکذاة والکذایة: مٹی یا لٹے کا ڈھیر۔
الکاذیة: زمانہ کی سختی۔
تکذ (ن) کذًا: کھر درا ہونا۔
أکذ: نرم پتھر پر چلنا۔
الکذان: نرم پتھر۔ واحد کذانة۔ تکذب
(ض) کذبا وکذبا: کذبنا وکذبنا وکذبنا
وکیذابا وکیذابا: جھوٹ بولنا۔ جان بوجھ کر
غلط خبر دینا۔ تکذبت العین: دھوکا دینا۔
تکذب السرای: غلط ہونا۔ کہا جاتا ہے
"تکذبتک عینک" یعنی تیری نظر نے تجھ
کو دھوکا دیا۔ وکذب السیر: چلنے میں
کوشش نہ کرنا۔ وکذب القوم السری:
لوگ رات کو چلنے پر قاعد نہیں ہوئے اور کبھی
دو مشغول کی طرف متعدی ہوتا ہے۔ کہا جاتا
ہے "تکذبت الحدیث" جبکہ غلط خبر دے اور
خلاف واقعہ بیان کرے اور مشدد ہونے کی
صورت میں صرف ایک ہی مفعول آتا ہے۔

كُذِبَ الرَّجُلُ: جھوٹی خبر دیا جانا۔

كُذِبَتْ: جھوٹا بنانا۔ جھوٹ کی طرف نسبت

کرنا۔ كُذِبَ عَنْ أَمْرٍ أَرَادَهُ: زک جانا۔۔۔۔۔

السُّحْرُ: گری کام ہونا۔۔۔۔۔ عَنْ فُلَانٍ: فلاں

کی طرف سے جوا ب دینا۔ کہا جاتا ہے "فَا كُذِبَ أَنْ فَعَلَ كَذَا" یعنی اس نے کرنے

میں دیر میں کی كُذِبَ نَفْسُهُ: جھوٹ بولنے

کا اقرار کرنا (..... تَكْذِيبًا وَكُذْبًا) انکار

کرنا۔ کہا جاتا ہے "كُذِبَ بآيَاتِ رَبِّهِ" اس

نے پروردگار کی نشانیوں کا انکار کیا۔

اَلْكُذْبَةُ: جھوٹ پر آمادہ کرنا۔ جھوٹا پانا۔

جھوٹ ظاہر کرنا۔ اَلْكُذْبُ نَفْسُهُ: جھوٹ

بولنے کا اقرار کرنا اور کہا جاتا ہے "اَلْكُذْبُ

فُلَانٍ" جب کہ آواز دی جائے اور وہ

خاموش پڑا رہے یہ ظاہر کرے گویا سویا ہوا

ہے اس سے اسم الاكذاب ہے۔

كُذِبَتْ كُذْبَانًا وَمُكَذَّبَةٌ: کسی کو یہ کہنا کہ تو

نے جھوٹ کہا۔

تَكْذِبُ: تکلف جھوٹ بولنا۔۔۔۔۔ فُلَانًا

وَعَلِيهِ: جھوٹا سمجھنا۔

تَكَاذَبَ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو جھوٹا کہنا۔

الْكُذْبَانُ: بتلیٹ الكاف والْكُذْبِي

والْكُذْبَانُ: جھوٹ۔

الْاَكْذُوبَةُ: جھوٹ۔ جِ اَلْاَكْذِيبُ.

الْكَاذِبُ: قاج كَذِبَةٌ وَكُذَابٌ وَكُذَّبٌ.

الْكَاذِبَةُ: كاذب: كاموئٹ جِ كَاذِيبَاتٍ

وَكَوْاذِبٍ: جھوٹ۔

الْكُذُوبُ جِ كُذْبٌ وَالْكُذْبَانُ

وَالسُّكُذْبَانُ وَالسُّكُذْبَانُ: بڑا جھوٹا۔

الْكُذُوبُ: نفس۔

الْكُذَابُ وَالْكُذِبَةُ وَالْكُذُوبَةُ وَالسُّكُذَابُ

وَالسُّكُذْبَانُ وَالسُّكُذْبَانَةُ: بڑا جھوٹا۔

الْكُذُوبَةُ: نفس۔

السُّكُذِبَةُ وَالسُّكُذِبَةُ جِ مَكَاذِيبُ

وَالْمَكُذُوبُ وَالْمَكُذُوبَةُ جِ مَكَاذِيبُ:

جھوٹ۔

السُّكَاذِيبُ: جھوٹی باتیں۔ لغو و باطل باتیں۔

كُذَا: دو طریقہ سے مستعمل ہے۔

(۱) یہ کہ دونوں کلمے کاف حرف تشبیہ اور ذ

اسم اشارہ اپنی اصلی حالت پر رہیں جیسے

رَأَيْتُ زَيْدًا فَاصِلًا وَرَأَيْتُ عَمْرًا وَكُذَا

اور کہا جاتا ہے كُذَا۔

(۲) یہ کہ کلمہ انہیں دونوں کلموں سے مرکب

ہو اور کنا یہ ہو عدد سے جیسے قَبْضَةٌ كُذَا

وَكُذَا جِوهَمَا: یا غیر عدد سے جیسے بِسْكَانٍ

كُذَا وَكُذَا۔

الْكَاذِي: کیوڑہ۔

كُذِرَ (ن) كُذِرُوا: لوٹنا۔ مڑنا۔ کہا جاتا ہے

"انْهَزَمَ عَنْهُ فَمَ كُذِرَ عَلَيْهِ" یعنی اس نے

فلاں سے شکست کھائی اور پھر لوٹ پڑا۔

پہنتر ابد لئے کے لئے بھاگنا پھر دوبارہ حملہ

کرنا۔ صفت كُذِرَ اور اسی سے کہا جاتا ہے

"الْجَوَاذُ يَنْصَلِحُ لِلْكَرِّ وَالْفِرِّ" گھوڑا

گھومنے اور حملے کرنے کی صلاحیت رکھتا

ہے۔

..... اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ: رات دن کا باری باری

آنا (..... كُذِرَ الرَّجُلُ: لوٹنا) كُذِرَ

وَكَذِرُوا وَتَكَذَرُوا: الفَارِسُ عَلَى الْعَدُوِّ:

شہسوار کا دشمن پر حملہ کرنا اور لوٹ پڑنا۔

كُذِرَ (ن) كُذِرُوا: الصَّرِيضُ: جان دینا۔

كُذِرَ (س) كُذِرَ صَدْرُهُ: گلا گھونٹے ہوئے

کی طرح آواز لگانا۔

كُذِرَ كُذِرًا وَتَكَذِرُوا وَتَكَذِرَةُ: الشَّىءُ: بار

بار کرنا۔

تَكَذِرُ: بار بار ہونا۔

الْكُذْرُ: مہس۔ کھجور کے پتوں کی رسی۔

درخت خرما پر چڑھنے کی رسی۔ جہاز کارسا۔

جِ كُذْرُور (..... وَالْكُذْرُورُ: جِ

كُذْرَارُ۔

الْكُزُّ: نماز پڑھنے کے لئے لمبلی۔ جِ اَلْاَكْزَارُ

وَكَزْرُورُ۔

الْكُزُّ: ایک پیمانہ کا نام۔ چادر جِ اَلْاَكْزَارُ۔

الْكُزَّةُ: لڑائی میں حملہ۔۔۔۔۔ عِنْدَ الْمَوْلِدِينَ

مِنَ الْمُحَاسِبِينَ: ایک لاکھ جِ كُزَّاتُ۔

السُّحْرَةُ: سڑی ہوئی ٹیکٹیاں جس سے زہرہ

کو صاف کرتے ہیں۔ صبح اور شام اور ان

دونوں کو كُزَّانُ اور قُزَّانُ: کہتے ہیں۔

الْكُزِّيُّ: لڑائی میں حملہ۔

السُّكُورُ: مہس۔ گلا گھونٹے ہوئے والے کی

طرح سینہ کی آواز۔ غبار وغیرہ کی وجہ سے گلو

گرفتگی۔

الْكُزَّارُ وَالْمِكْرُ: لڑائی میں بہت زیادہ حملہ

کرنے والا۔ کہا جاتا ہے "فَسَرَسَ مِكْرًا

مِصْفَرًا" یعنی گھوڑا ایسا سدھا ہوا کہ حملہ کے

وقت حملہ کرے اور جب بھاگنے کا ارادہ

کریں تو لے کر بھاگ جائے۔ نَاقَةُ مِكْرَةَ

اَوْعِي جِسْمًا كَوَ اِيكٍ دِنٍ مِثْلٍ دَوَّ مَرْتَبَةٍ دَوَّ

جائے۔

الْمِكْرُ: حملہ کی جگہ۔

كُزِبَ (ن) كُزِبْنَا الْعَجَبُ: رشی ہونا۔۔۔۔۔

الْقَيْدُ عَلَى الْمُقَيْدِ: قیدی پر بیڑی کو تنگ

کرنا۔

..... هِ الْأَمْرُ: دشوار ہونا۔۔۔۔۔ هِ الْعَمُّ: سخت غم

ہونا۔ كُزِبَ الدَّلْوُ: ڈول کے دست میں

چھوٹی رشی باندھنا۔۔۔۔۔ فُلَانٌ: درخت خرما

کے تنہ سے ملحق ٹہنی کی جڑ لینا (..... كُزُوبْنَا)

قریب ہونا۔

النَّارُ: آگ بجھنے لگانا۔ كُزِبَتِ الشَّمْسُ:

آفتاب ڈوبنے کے قریب ہونا۔۔۔۔۔ فُلَانٌ:

کھجور کے تنہ کے نزدیک کی چتی ہوئی

کھجوریں کھانا بے درخت اور بے پانی والی

زمین میں کھیتی کرنا۔ كُزِبَ النَّاقَةُ: بوجھل

کرنا۔ اور کہا جاتا ہے "كُزِبَ يَفْعَلُ" یعنی

وہ کرنے لگا اور اس صورت میں یہ افعال

مقارہ میں سے ہے (..... كُزِبْنَا وَكُرَابًا)

الْأَرْضُ لِلزَّرْعِ: کھیتی کے لئے زمین جوتنا۔

كُزِبَ (س) كُزِبْنَا الرَّجُلُ: ڈول کے دست

کی کوئی ہوئی رشی والا ہونا۔

كُزِبَ: غم لاحق ہونا۔

كُزِبَ الدَّلْوُ: ڈول کے دست پر چھوٹی سی

رتش یا ندھنا..... السَّرْبُجُلُ: بے درخت اور بے پانی والی زمین میں کھیتی کرنا۔ تنہ کے نزدیک کی چٹی ہوئی کھجوریں کھانا۔

اَلْكَرْبُ: قریب ہونا..... الاَمْرُ: قریب الوقوع ہونا..... الاِنْسَاءُ: برتن بھرنے کے قریب ہونا۔

فی السَّيْرِ: دوڑنا..... القُوْبَةُ: مشک بھرتا۔ مَازِبُهُ مَکَاوِنَةٌ وَ مَکْرَانًا: قریب ہونا۔ تَکْرِبُ: تنہ کے نزدیک کی کھجوریں چننا۔

اَلْخَسْرُ: اِخْتِرَانًا وَ اِخْتِرَابًا اِخْتِرَانًا: سخت غمگین ہونا۔

اَلْكَرْبُ: جِ كُحْرُوبٍ وَ اَلْكَرْبَةُ جِ كُحْرَبٍ: غم اور مشقت۔

اَلْكَرْبُ: ذُولُ كَيْ دَسْتِ پَرِ كِي چھوٹی رتشی کھجور کی ٹہنی کی موٹی چوڑی جڑ۔ واحد كُحْرَبَةٌ۔

اَلْكَرْبَةُ: گول لکڑی جس میں خمد کے ڈنڈے کا سرا رکھا جاتا ہے جس کو فارسی میں کماج اور بادریس کہا جاتا ہے۔ جِ كُحْرَبٍ۔

اَلْكَرْبَةُ: سخت مصیبت۔ جِ كُحْرَابٍ۔ اَلْكَرْبَةُ وَ اَلْكَرْبَانَةُ: کھجور جو ٹہنی کی جڑ سے کٹنے کے بعد چٹی جائے۔ جِ اَلْكَرْبَةُ۔

اَلْكَرَابُ: وادی میں پانی بہنے کی جگہیں۔ واحد كُحْرَبَةٌ۔

اَلْكَرْوَبِيُّونَ وَ اَلْكَرْوَبِيَّةُ: اشراف ملائکہ۔ مقرب فرشتے۔ عبرانی زبان میں كُورِيم کہتے ہیں۔ جِ كُحْرُوبٍ اور کبھی عبرانی لفظ ہی کو استعمال کرتے ہیں واحد كُحْرُوبٍ۔

اَلْكَرْبِيُّ: نئے کی گرہ۔ روٹی پکانے والے کا بیلن۔ اَلْكَرْبِيُّ مِنَ الْاَرْضِ: بے پانی اور بے درخت والی زمین (..... وَ اَلْمَكْرُوبُ) غمگین۔

اَلْكَرْبِيَّةُ: كُورِيْبُ: کامونٹ۔ سخت مصیبت۔ جِ كُحْرَابٍ: کہا جاتا ہے "صافی الدار كُحْرَابٌ" یعنی گھر میں کوئی نہیں۔

اَلْمَكْرُوبُ: جرثومہ۔ یعنی پانی خون اور ہوا میں باریک جانور جو بغیر دور مین کے نظر نہ

آئے۔

اَلْاَلْكَرْبَابُ: مص جلد بازی۔ تم کہتے ہو "تُخَذِرُ جَلْبِيْكَ بِالْاَلْكَرْبَابِ" یعنی جانے میں جلدی کرو۔

اَلْمُكْرَبُ مِنَ الْمَفَاصِلِ: پتھوں سے بھرا ہوا۔ مضبوط رتشی یا عمارت یا جوڑ وغیرہ۔ خَافِرٌ مُكْرَبٌ: مضبوط کھر۔

اَلْكَرْبِيُّونَ اَوْ اَلْفَجِيْمُ: (کیما) کیمائی عناصر میں سے ایک ہے جس کا رمز (علامت) ایٹمی نمبر اور کیت نمبر درج ذیل ہیں۔ ۱۲۔ ۱۔

کاربن-6 -C- کوئلہ کے استعمال کے لئے ایک جسم بسیط ہے۔ زندگی والی کائنات اور ملائم میں کاربن داخل ہوتا ہے۔

اَلْكَرْبُونَاثُ: کاربونات۔ سفید باریک پیسا ہوا اکٹھا مادہ جو کہ دوسرے جسم کے ساتھ ہو۔ (سوڈا کی کاربونیٹ)۔

اَلْكَرْبِيْجُ: ذُكَاانٌ يَادُكَاانَ كَا سَااانَ۔ جِ كُحْرَابِيْجٍ (دخیل) كُحْرَبَةٌ فِيْ عَذْوِهِ: دوڑنے میں کوشش کرنا۔ تیز دوڑنا۔

اَلْكَرْبِيْزُ: بواکھیرا۔ كُحْرَبَسٌ: بیڑی پڑے ہوئے کی طرح چلنا۔ تَکْرَبَسٌ مِنْ ظَهْرِ قَرْبِهِ: گھوڑے کی پیٹھ سے گر پڑنا۔

اَلْاَلْكَرْبَانَسُ: کھر در ا کپڑا۔ شراب چھاننے کی چیز۔ جِ كُحْرَابِيْسٍ (دخیل) رَجُلٌ مُكْرَبَسٌ الرَّاسِ: گول سرو الامرد۔ كُحْرَبَسٌ: چھلائگ لگانے کے لئے ناگلوں کو اکٹھا کرنا۔ بیڑی پڑے ہوئے کی طرح چلنا

..... اَلْشَيْءُ: لینا اور باندھنا۔ تَکْرَبَسُ الْجِلْدُ: کھال کا سکرنا۔ كُورْبَعُهُ: پچھاڑنا..... اَلْشَيْءُ بِالسَّيْفِ: تلوار سے کاٹنا..... قُوَابِئِمَةٌ: ٹائیکس جدا کرنا۔

تَکْرُبِعٌ: چوڑوں کے بل گرنا۔ كُورْبَلٌ: کچڑ میں چلنا۔ پانی میں گھسنا..... اَلْشَيْءُ بِالسَّيْفِ: ملانا..... اَلْجَنْطَةُ: گیہوں میں چھانتا صاف کرنا۔

اَلْاَلْكَرْبَانَالُ: گیہوں صاف کرنے کی پھلنی۔

رُوْدِيُّ وَ دَهْنِيْ كِي كَمَاانَ۔ جِ كُحْرَابِيْلُ۔ اَلْاَلْكَرْبَانَلَةُ: مص۔ پاؤں کی سستی۔ کہا جاتا ہے "جَسَاءُ يَمْشِيْ مُكْرَبَانَلًا" یعنی وہ اس طرح آیا گویا کچھڑ میں چل رہا ہے۔

فَرَاشَةُ الْاَلْكَرْبِ: اَوْ ذُوْدَةُ الْمَلْفُوْفِ: کرم کلا کو تباہ کرنے والا سفید کپڑا۔ اَلْاَلْكَرْبُوْبِنَا: درختوں کی ایک قسم جو کہ سڑکوں کے کنارے زریب وزینت کے لگائے جاتے ہیں ان درختوں کا ملک آسٹریلیا ہے۔

كُحْرَبُ (ضن) كُحْرَبَا وَ اَلْكَرْبُ الْغَمُّ فَلَا تَااَ سَخت غمگین کرنا۔ اِنْكَرَبْتُ الْاَلْخَيْلُ: رتشی کا ٹوٹنا۔

اَلْاَلْكَرْبُ لِاَلْاَمْرِ: پروا کرنا..... کہا جاتا ہے "هَلُوْ لَا يَكْتُرِبُ لِهَذَا الْاَمْرِ" وہ اس معاملہ کی پروا نہیں کرتا۔

اَلْاَلْكَرْبُ وَ اَلْاَلْكَرْبَانَةُ: گندنا۔ ایک بدبودار قسم کی ترکاری۔ جس کی بعض قسمیں پیاز اور بعض لہسن کے مشابہ ہوتی ہیں۔ واحد كُحْرَابَةٌ۔

اَلْاَلْكَرْبُ: غم انگیز معاملہ۔ جِ كُحْرَابُتٍ۔ اَلْاَلْكَرْبِيْئَةُ: غم انگیز معاملہ۔ کہا جاتا ہے "اِنَّهُ لَاَلْكَرْبِيْئَةُ الْاَمْرِ" جبکہ بزدلی کرے اور پیچھے ہٹے۔

كُحْرَبَا وَ تَکْرَبَا الشَّعْرُ وَ نَحْوُهُ: بال وغیرہ کا گھجانا ہونا۔ اَلْاَلْكَرْبِيْسِيُّ: تہ بند بادل۔ اٹلے کا ادھر کا چھلکا۔

اَلْاَلْكَرْبَانَةُ وَ اَلْاَلْكَرْبَانَةُ: گھجانا سبزی۔ اَلْاَلْكَرْبَانَاءُ: چکی کھجور۔

كُحْرَبُ (س) كُحْرَبَا وَ كُحْرَبُ وَ اَلْاَلْكَرْبُ وَ تَکْرَبُ الْاَلْغُبُزُ: خراب ہونا۔ پیچھو ہونے لگنا۔ عوام "عَقْفَنُ" سے تعبیر کرتے ہیں۔

اَلْاَلْكَرْبُ: ایک قوم کا نام۔ واحد كُحْرَبِيْجِي (..... وَ اَلْاَلْكَرْبُ) ایک چیز ہے پھیرے کی شکل کا جس سے کھیلے ہیں۔ اَلْاَلْكَرْبِيْجِي: منخت۔

الکوح: راہب کی کوٹھری۔ ج اکحاح۔
 کحخ (ف) کحخ الماء الى مواضعہ:
 چلانا۔
 کحذ (ن) کحذاً: ہانکنا..... العذو: دشمن کو
 ہانا..... الشی: کاٹنا۔
 کحذہ مکارذہ: دفع کرنا۔ ہانا۔
 الکحود: گردن کی جڑ۔ کہا جاتا ہے "أخذہ
 بکحوہ او بکحوئہ" اس نے اس کی گردن
 کی جڑ کو پکڑ لیا۔
 الکحویذہ: کھجور کی بڑی ڈھیری۔
 کحردح: پستہ قد کی طرح دوڑنا۔ فلانسا:
 پھارتا۔
 نکحذح فی عذوہ: پستہ قد کی طرح دوڑنا۔
 الکحردح: بڑھیا۔ مضبوط مرد۔
 الکحرداح: پستہ قد۔
 الکحرداح: دوڑنے میں قریب قریب قدم
 رکھنے والا۔
 الکحردحہ: مص۔ تیز دوڑ۔
 المکحردح: فا۔ ذلیل و خوار۔
 کحردس الخیل: گھوڑوں کو جمع کرنا اور دستہ
 دستہ بنانا..... الشی: ہاندھنا۔ بیڑی ڈالنا۔
 بیڑی پڑے ہوئے کی طرح چلنا.....
 الحماز: گدھے کو تیز ہانکنا..... ہ: پھارتا۔
 کحردس الرجل: ہاتھ پاؤں اکٹھا ہاندھا
 جانا۔
 نکحردس: سکڑنا اور بعض کا بعض پر جمع ہونا۔
 الکحردوس: کندھے کی ہڈی۔
 الکحردوسہ: گھوڑوں کا بڑا گلہ۔ ہر ہڈی
 جس پر گوشت ہو۔ ہر جوڑ کی دونوں
 ہڈیاں۔ ج کحردس و کحردیس۔
 کحردیس الفرس: گھوڑے کے جوڑ۔
 المکحردس: گٹھے بدن کا۔
 الکحردیسال ج کحردیلة: گرجا میں ایک بڑا
 عہدہ۔
 کحردم: موٹے پستہ قد کی طرح دوڑنا۔
 القوم: جمع کرنا۔
 نکحردم: گھبرا کر دوڑنا۔

الکحردم و الکحردوم من الرجال: موٹا پستہ
 قد۔ ج کحردام و کحردایم۔ الکحردم:
 بہادر۔
 کحرد (ض) کحردو: داخل ہونا۔ پوشیدہ
 ہونا..... الی فلان: پناہ لینا..... کحردا
 انجیل کا وعظ کہنا۔
 کحرد البازی: باز کو سدھانے کے لئے
 آنکھوں کو سینا اور کھلانا۔
 کحرد البازی: باز کے پروں کا گرتا۔
 کحرد مکارذہ الى المكان: دوڑ کر چھپنا۔
 عنہ: بھاگنا..... ہ: بھاگنا اور عاجزی ظاہر
 کرنا..... القوم: ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری کو
 لینا۔
 الکحرد: چرواہے کا تھیلا۔ چھوٹی بوری۔ کحرد
 الجعل: گبریلا کی گولی۔ ج اکحاز و کحردہ۔
 الکحرد: ایک درخت کا نام جس کا پھل شفتالو
 کی مانند مگر اس سے چھوٹا ہوتا ہے۔ واحد
 کحردہ۔
 الکحرد: حاذق۔ نجیب۔ گفتگو میں عاجز و
 در ماندہ باز۔ ایک سال کا پرندہ۔ ج
 کحردازہ۔ (.....) و المکحرد و الکحردی
 لیم۔ خبیث۔
 الکحرد و الکحردوز: انجیل کا وعظ۔
 الکحرد: ج کحردان و الکحرد: شیش۔ تنگ
 سر کا کوزہ۔
 الکحرد: چرواہے کا تھیلا اٹھانے والا۔ بے
 سیٹگ کا مینڈھا..... من المغز: تھنسی دار
 بکری۔ ج کحردیز۔
 الکحردیز: پیپر۔
 الکحردہ: انجیل کا وعظ۔
 کحردم کحردمہ الرجل: دو پہر میں کھانا۔
 الکحردم: بہت کھانے والا۔ چھوٹی ٹاک
 والا۔ کلباڑا۔
 الکحردم و الکحردیم: کلباڑا۔ سخت مصیبت۔
 ج کحردام و کحردایم۔
 کحردس البناء: عمارت کی بنیاد رکھنا۔
 الانسقف البیعة او الاوانی الخبیثہ

و غیر ہا: وقف کرنا۔ خدمت اللہ کے لئے
 مخصوص کرنا۔
 اکحوس: المنکان: بول و براز سے لتھڑنا۔ ہ
 بول و براز والی جگہ میں داخل ہونا۔
 کحوس: بنیاد رکھا جانا۔ وقف ہونا۔ خدمت
 اللہ کے لئے مخصوص ہونا..... الشی: تہ بہ تہ
 ہونا اور سخت ہونا..... أس البناء: عمارت کی
 بنیاد کا مضبوط ہونا۔ لتھڑنا..... الحب
 ونحوہ: دانہ وغیرہ جمع کرنا۔
 انکرس علیہ: اوندھا ہونا..... فی الشی:
 اوندھا ہو کر داخل ہونا۔
 الکرس: ہر چیز کا انبہ۔ بول و براز سے
 لتھڑا ہوا۔ بکریوں کے بچوں کا باڑہ۔ ج۔
 ج اکراس و ج اکراسیس۔ کرس
 الحوض: حوض کے ارد گرد بول و براز سے
 لتھڑی ہوئی زمین۔
 الکراس و الکراس: کتاب کا جزء۔
 پمخت۔ ج کحراس۔
 الکراسی: تخت۔ کرسی۔ ج کراسی
 و کراس کراسی: الاُسقف: پادری کی
 اقامت گاہ۔ کراسی المملک: تخت
 شاہی۔ الکراسی: علم: کہا جاتا ہے "هو من
 اهل الکراسی" یعنی وہ اہل علم میں سے ہے
 اور کہا جاتا ہے "اجعل لهذا الحائط
 کراسیا" اس دیوار کے لئے پستہ بنا دو۔
 کراسی الجوزا: چند ستاروں کا مجموعہ۔
 الکراسی: علماء۔
 الکراس: چھت کے اوپر کا پانچخانہ۔ ج
 کراس۔
 الکراس: بڑے سرو والا۔ ہر ضخیم چیز۔ سیاہ۔
 المکرس و المکرس: منفع..... من
 القلاجید: دودھا گوں میں علیحدہ علیحدہ موتی
 اور مہرے کو گوندھ کر بڑے مہروں سے جوڑا
 ہوا ہار۔ المکرس: جوان پستہ قد بہ
 گوشت۔
 الکراسیة: مویچوں کی اصطلاح میں وہ چیز
 جس سے جوتیاں تیار کی جاتی ہیں۔

كَمْزَسَعُ كَمْزَسَعَةُ الرَّجُلِ: دوزنا..... فلاتا: گئے ہوئے چھنگلیا والے حصے پر مارنا۔

الْكَمْزَسُوعُ: گئے کا چھنگلیا کی طرف کا حصہ۔
رَجْ كَمْزَسِيعٍ: كَمْزَسُوعُ الْقَدَمِ: مٹنے کا جوڑ۔
الْكَمْزَسُوعَةُ وَالْكَمْزَسُوعَةُ: لوگوں کی جماعت۔

الْمُكَمْزَسِعُ: گئے کے چھنگلیا کی طرف ابھرا ہوا حصہ۔ مَوْنُثُ مَكَمْزَسِعَةٍ:

كَمْزَسَفُ الذَّابَةِ: چوپایہ کی کوچ کچا کٹنا۔
..... البَعِيْرُ: اونٹ کے پاؤں ہاندھنا۔

الذَّوْاقَةُ: دوات میں صوف ڈالنا۔
تَكَمْزَسَفُ: کوچ کچا کٹنا۔ پاؤں بندھنا۔ دوات

میں صوف پڑنا..... الشَّيْءُ: بعض کا بعض میں داخل ہونا۔

الْكَمْزَسَافَةُ: آنکھ کی کدورت۔
الْكَمْزَسُفُ وَالْكَمْزَسُوفُ: رُوئی۔

الْكَمْزَسُفَةُ وَالْكَمْزَسُوفَةُ: رُوئی کا ٹکڑا۔
دوات کا صوف۔

الْبِكْرِيْسَةُ وَالْبِكْرِيْسَةُ: ایک چھوٹے سے پودے کا نام جس کے بیج کو گاؤ دانہ کہتے ہیں

جو پتے کے برابر گول سیاہ سرخی مائل ہوتا ہے اور دوا میں کام آتا ہے۔

كَمْزَسُ (س) كَمْزَسَا الْجِلْدُ: کھال سکرنا۔
..... الرَّجُلُ: تنہائی کے بعد جماعت والا

ہونا۔
كَمْزَسُ: ترش رُوئی کرنا۔ مَكَمْزَسَةُ (ایک قسم کا کھانا) بنانا۔

تَكَمْزَسُ وَجَهَهُ: ترش رُو ہونا۔ تیوری چڑھنا
..... الْقَوْمُ: اکٹھا ہونا۔ جمع ہونا۔

إِسْتَكَمْزَسُ الْجَدْيُ: بکری کے بیچے کا بڑے پیت والا ہونا۔ إِسْتَكَمْزَسَتْ اِنْفِخَةُ

الجدی: بکری کے بچے کے اِنْفِخَةُ: کاکرش ہونا (بکری کے بچے جب تک کچھ نہ کھائے

اور صرف دودھ پیتا رہے تو اس کی آنت کو اِنْفِخَةُ: کہتے ہیں اور جب وہ کچھ کھانے

لگے تو پھر كَمْزَسُ: کہتے ہیں)..... الرَّجُلُ: تیوری چڑھانا۔ ترش رُوئی کرنا۔

الْكَمْزَسُ وَالْكَمْزَسُ: جگالی کرنے والے جانور کی اوجھ (مَوْنُثُ) رَجْ كَمْزَسُوش.

الْكَمْزَسُ وَالْبِكْرِيْسُ: لوگوں کی جماعت۔ مرد کے اہل و عیال۔ چھوٹی اولاد۔ ایک بہترین

قسم کی گھاس۔ خوشبو کا ڈبہ۔ کپڑے کی عجمری۔ رَجْ كَمْزَسَاش وَكَمْزَسُوش. كَمْزَسُوش

الْقَوْمُ: قوم کا بڑا حصہ۔ كَمْزَسُوش كَلَّ شَيْءٌ: ہر ایک چیز کا اجتماع۔

التَّكَمْزَسُوشَةُ: اوجھ میں پکا ہوا کھانا۔
الْاِكَمْزَسُوشُ مِنَ الرَّجَالِ: بڑے پیٹ والا اور

بقول بعض زیادہ مال والا۔ مَوْنُثُ كَمْزَسَاءُ رَجْ كَمْزَسُوش. قَدَمُ كَمْزَسَاءُ: ہڈ گوشت بھرے

ہوئے کتوے اور چھوٹی آنکھوں والا قدم۔
ذَلَمُوْ كَمْزَسَاءُ: بڑا ڈول۔ اَتَانُ كَمْزَسَاءُ:

بھرنے ہوئے کوکھ کی گدھی۔
الْمَكَمْزَسُوشَةُ: کھانا جو گوشت چربی اور اوجھ ملا

کر پکاتے ہیں۔
كَمْزَسُ (ض) كَمْزَسَا الشَّيْءُ: کوٹنا۔ ہاتھ

سے نچوڑنا۔
كَمْزَسُوشُ: بچیر کھانا۔

اِكَمْزَسُوشُ الشَّيْءُ: جمع کرنا۔
الْكَمْزَسُوشُ: بچیر۔ بچیر بنانے کی جگہ۔

الْمَكَمْزَسُوشُ: دودھ دوہنے کا برتن۔
كَمْزَسُوشُ (ن) كَمْزَسَا الشَّيْءُ: تہ بتر کھنا۔

كَمْزَسُوشُ (ن) كَمْزَسَا فِي عَرَضِ فُلَانٍ: طعنہ دینا۔ عزت میں عیب لگانا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ

مَكَمْزَسُوشُ الْعَسْبِ" اس کے حسب میں عیب لگایا گیا ہے۔

كَمْزَسُوشُ (ف) وَكَمْزَسُوشُ (س) كَمْزَسَا وَكَمْزَسُوشَا فِي الْمَاءِ او الْاِنَاءِ: پانی یا برتن

میں منہ لگا کر پانی پینا۔
كَمْزَسُوشُ (ف) كَمْزَسَا: پنڈلی پر تیر مارنا۔

كَمْزَسُوشُ (س) كَمْزَسَا: درد مند پنڈلی والا ہونا۔ پایہ کھانے کا مشتاق ہونا۔ باریک

پنڈلی والا ہونا..... السَّاقُ: پنڈلی کے اگلے حصہ کا باریک ہونا۔ كَمْزَسُوشُ السَّمَاءُ: برسنا۔

اِكَمْزَسُهُ الصَّيْدُ: شکار کا قریب ہونا۔ اِكَمْزَسُ الْقَوْمُ: منہ سے پانی پینے کے قابل پانا۔

تَكَمْزَسُوشُ..... الرَّجُلُ: وضو کرنا۔ اطراف پر پانی بہانا۔

الْكَمْزَسُوشُ: مہل۔ منہ لگا کر پینے کے قابل پانی۔ جانور کی ٹانگیں۔ کہنے و فرمایہ لوگ۔

دنی طبیعت کا۔ واحد جمع دونوں کے لئے مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ كَمْزَسُوشٌ

وَرَجُلٌ كَمْزَسُوشٌ" الْكَمْزَسُوشُ مِنَ الْبَقْرِ وَالنَّعَمِ: گائے بکری کے پائے (مذکر و مؤنث) اور

بقول بعض كَمْزَسُوشُ: بچوں کے نیچے کو کہتے ہیں۔ وَالْكَمْزَسُوشُ مِنَ الْاِنْسَانِ: گھٹنے سے

نیچے۔ پنڈلی۔ رَجْ اِكَمْزَسُوشُ وَاِكَمْزَسُوشُ: الْكَمْزَسُوشُ: گھوڑے۔ نچر۔ گدھے۔ ہر شے کا

کنارہ۔
كَمْزَسُوشُ الْاَرْضِ: زمین کے گوشے۔ کہا جاتا

ہے "إِمْشِ فِي كَمْزَسُوشِ الطَّرِيقِ" یعنی راستے کے کنارے میں چلو۔ اِكَمْزَسُوشُ الْاَرْضِ:

زمین کی آخری حدیں۔
الْكَمْزَسُوشُ: پائے کا بیچنے والا۔

الْكَمْزَسُوشُ: فنا۔ پانی میں گھسنے والا پنے یا نہ پنے۔

الْكَمْزَسُوشُ: كَمْزَسُوشُ كَمْزَسُوشُ: رَجْ كَمْزَسُوشَاتُ. الْكَمْزَسُوشَاتُ: پانی کے اوپر کھجور کے درخت۔

الْكَمْزَسُوشُ: برتن نہ ہونے کی وجہ سے اوک سے پانی پینے والا۔

الْكَمْزَسُوشُ: تپلی پنڈلیوں والا۔
الْكَمْزَسُوشُ: اسم مبالغہ۔ فرمایہ لوگوں سے

دوستی کرنے والا۔ بارش کے پانی سے سیراب کرنے والا۔

الْمَكَمْزَسُوشُ: جانوروں کے پانی پینے کی جگہ۔ رَجْ كَمْزَسُوشَاتُ.

فَرَسٌ مَكَمْزَسُوشٌ الْقَوَائِمِ: مضبوط ٹانگوں والا گھوڑا۔

الْمَكَمْزَسُوشُ مِنَ النَّخِيلِ وَغَيْرِهِ: پانی لگانے ہوئی کھجور۔
كَمْزَسُوشُ (ن) كَمْزَسَا وَكَمْزَسَا: اِكَمْزَسُوشُ

الحِمْارُ وَغَيْرِهِ: گدھے کا پیشاب کو سونگھ کر سر اٹھانا اور ہونٹوں کو پلٹنا۔
 كَرَفَ الشَّيْءُ: سونگھنا۔ اُكْرَفَتِ الْبَيْضَةُ: انڈے کا گندا ہونا۔
 الْكُرْشَةُ: عربی حروف غیر عربی زبان میں یا اس کا برعکس۔ الْكُرْشُونِيُّ: عربی الفاظ جو کہ سریانی میں لکھے جاتے ہیں۔ (سریانی لفظ) الْكِرْفُ: ایک ہی چیز کے کا ڈول۔
 كُرْفَاتُ الْقَيْدِ: ہانڈی کا جھاگ دینا۔ كُرْفَا الْقَوْمِ: غلط ملط ہونا۔
 تَكْرُفَا السَّخَابِ: بادل کا تہہ ہونا۔ الْكِرْفِيُّ: بلند بادل۔ اور ایک کٹڑے کو كِرْفَنَةً: کہتے ہیں۔ الْكِرْفِيُّ: انڈے کا اوپر کا چھلکا۔
 الْمُكْرَفُجُ: بد صورت چہرہ والا۔ الْكِرْفِيَّةُ: شیشہ کی بوتل۔
 كُرْفَسُ كُرْفَسَةٍ: بیڑی پڑے ہوئے کی طرح چلنا۔ الْبِعْرُ: تنگ باندھنا۔ تَكْرُفَسُ: بعض کا بعض میں داخل ہونا۔ الْكُرْفَسُ: زوئی۔ الْكُرْفَسُ: اجوائن۔ الْكُرْفِيُّ: سارس۔ ج کُرْفِيحِي۔ الْكُرْفُكْدُنُ: گینڈا۔ اس کو سر میس بھی کہتے ہیں اور عوام کو کھنڈن کہتے ہیں۔
 كُرْكُرُ كُرْكُرَةِ الشَّيْءِ: بار بار اعادة کرنا۔ الْرُحِيُّ: چکل گھمانا۔ السَّحْبُ: دانہ پینا۔ الشَّيْءُ: جمع کرنا۔ الرُّجُلُ: قید کرنا۔ الْفِي الصَّيْحُكُ: بہت ہنسا۔ الرُّجُلُ: ہنسا۔ نکلست کھانا۔ الرِّيَاخُ السَّحَابِ: ہوا کا بادل کو اڑا دینا۔ متفرق ہونے کے بعد اکٹھا کر دینا۔ الْاَمْرُ عَنْهُ: دفع کرنا۔ ہنانا۔ رد کرنا۔ بِالذَّجَاجَةِ: مرغی کو بلانا۔ تَكْرُكْرُ فِي الْاَمْرِ: مضطرب ہونا۔ الْمَاءُ: اپنے پینے کی جگہ میں لوٹ جانا۔ السَّطَائِرُ: پرندہ کا نفا میں منڈلانا۔ الْكُرْكُرُ: ایک آبی پرندہ۔

الْكُرْكُرَةُ: مصل گاڑھا دودھ۔ پیٹ کی گڑ گڑا ہٹ۔ الْكِرْكِرَةُ: سم والے جانور کا سینہ۔ لوگوں کی جماعت۔ ج کُرْكِرَا۔ الْكِرْكِرَا: گھوڑے کے جوڑ۔ الْكِرْكِرَةُ: گہری وادی۔ كُرْكِرَ الشَّيْءُ: رد کرنا۔ ہنانا۔ الذَّابَّةُ: چوپائے کو باندھنا۔ وَتَكْرِكِرَ كُرْكِرَ الْاِنْسَانُ: اوپر سے نیچے لڑھکانا۔ الْكُرْكِرُ: زعفران۔ مصلگی۔ ایک نباتات کی جڑ کہ وہ درس ہے یا اس کے مشابہ۔ الْكُرْكِرُ: سرخ رنگ کا گوند۔ گینڈا۔ كُرْكُرُ (ك) كُرْكُرًا وَكُرْكُرَةً وَكُرْكُرَةً: عزیز و نفیس ہونا آسانی سے دینا اور بخشش کرنا۔ فِاضُ هُونًا: السَّحَابُ: بارش لانا۔ كُرْكُرَةً (ن) كُرْكُرًا: کرم میں غالب ہونا۔ کہا جاتا ہے "كُرْكُرَةً فَكُرْكُرَةً" اس نے اس سے کرم میں مفاخرت کی اور غالب ہو گیا۔ كُرْكُرَةً تَكْرِكِرًا وَتَكْرِكِرَةً: تعظیم کرنا۔ تخریب کرنا۔ كُرْكُرُ الْمُنَّةِ وَجَهَّةُ: اللہ تعالیٰ ان کو باعزت کرے۔ (و كُرْكُرَةً) السَّحَابُ: بادل کا بہت پانی والا ہونا۔ كُرْكُرَةً: کرم میں مفاخرت کرنا۔ وَكُرْكُرَتْ فُلَانًا: میں نے اس کے پاس ہدیہ بھیجا تا کہ وہ بدلہ دے۔ الْكُرْكُرُ: کریم اولاد والا ہونا۔ فُلَانًا: تعظیم کرنا۔ نَفْسُهُ عَنِ الْمَعَاصِي: بچانا محفوظ رکھنا اور تعجب کے موقع پر بولا جاتا ہے "مَا الْكُرْكُرَةُ لِي" یعنی وہ میری تعظیم کس قدر کرتا ہے اور فعل زبانی سے ہونے کی وجہ سے یہ شاذ ہے۔ تَكْرُكْرُ: بہ تکلف کرم کرنا۔ (و تَكْرُكْرًا) عَنِي كَثْرًا: بچنا۔ دُور رہنا۔ اسْتَكْرَمَ: عمدہ عمدہ چھانٹ لینا۔ الشَّيْءُ: اچھی چیز طلب کرنا۔ اچھی چیز پانا۔ الْكُرْكُرُ: مصل۔ درگزر۔ بخشش۔ فِاضِي۔ بار میں ایک قسم کی کارگیری۔

الْكُرْمُ: صفت بمعنی کریم و طیب اور یہی لفظ واحد جمع مذکر مؤنث سب کے لئے مستعمل ہے جیسے رَجُلٌ كُرْمٌ وَبِئْسَ كُرْمٌ وَارْضٌ كُرْمٌ۔ الْكُرْمُ: انگوڑی تیل۔ فصیل والا انجمن باغ (عامیہ) ج كُرْمُومٌ۔ بِنْتُ الْكُرْمِ او الْكُرْمِيَّةُ او الْكُرْمُومُ: شراب۔ الْكُرْمُ: ہار۔ الْكُرْمَةُ: انگوڑی تیل۔ یہ کرم سے خاص ہے الْكُرْمَةُ: سرین کی ہڈی کا گول سرا۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ كُرْمَةٌ" سرور کریم۔ الْكُرْمَةُ: مصل۔ کہا جاتا ہے "اَفْعَلُ ذَلِكْ حُبًّا وَكُرْمَةً لَكَ" میں اس کو تمہاری محبت و تعظیم کے خیال سے کرتا ہوں۔ "وَلَهُ عَلِي كُرْمَةٌ" فلاں کے لئے میرے اوپر بزرگی ہے۔ الْكُرْمَةُ: امر خارق عادت جو اولیاء اللہ سے ظاہر ہو۔ کہا جاتا ہے كُرْمًا وَكُرْمَةً وَكُرْمَةً وَكُرْمِي وَكُرْمَانًا وَكُرْمَةً عَيْنِي لَكَ: یعنی تمہاری تعظیم کے لئے۔ الْاِكْرُمَةُ: کرم کا فعل۔ الشَّكْرَةُ: مصل۔ تکیہ۔ تکیہ جس پر انسان کو عزت و تعظیم کے خیال سے بٹھایا جائے۔ الْكِرْمِيْمُ: صاحب کرم۔ درگزر کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے رَجُلٌ كِرْمِيْمٌ: مردی۔ دیا لو۔ ج كِرْمَامٌ وَكِرْمَاءٌ اور لفظ "كِرْمِيْمٌ" کا اطلاق ہر اچھی اور پسندیدہ اور قابل تعریف چیز پر ہوتا ہے۔ زُذْقِي كِرْمِيْمٌ: بہت روزی۔ قَوْلُ كِرْمِيْمٌ: نرم و پسندیدہ قول۔ كِتَابُ كِرْمِيْمٌ: معنی الفاظ اور فوائد کے لحاظ سے پسندیدہ کتاب۔ وَجْهَةٌ كِرْمِيْمٌ: جمال و محاسن کے لحاظ سے پسندیدہ چہرہ۔ الْكِرْمِيْمَانُ: ج اور جہاد۔ الْكِرْمِيْمَةُ: کریم کا مؤنث ج كِرْمِيْمَاتٌ وَكِرْمِيْمٌ وَكِرْمَامٌ. الْكِرْمِيْمَةُ: ہر عضو شریف۔ جیسے ہاتھ کان الْكِرْمِيْمَتَانِ: دونوں آنکھیں۔ كِرْمِيْمَةُ الرَّجُلِ: بیٹی الْكِرْمِيْمَةُ: صاحب کریم و حسب۔ کہا جاتا ہے "فُلَانِي كِرْمِيْمَةٌ قَوْهِيْمٌ" فلاں اپنی قوم میں شریف

ہو۔ کسرِ نِسْمَة: میں تاملانہ کے لئے ہے۔

کُزَابَة الصَّالِ: عمدہ اور بہترین مال۔

الْكُرَام: کریم۔ کج کُزَامُون۔

الْكُرَام: انگوڑی تیل والا اور اس کی تانبائی کرنے والا۔

الْكُرَام وَالْكُرَامَة: بہت زیادہ کرم کرنے والا۔ کج کُزَامُون۔

الْمَكْرَمَان: کریم بہت وسیع اخلاق والا اور یریندابی کے لئے مخصوص ہے۔ کہا جاتا ہے یا مَكْرَمَان۔

الْمَكْرَم وَالْمَكْرَمَة: شریف۔ فیاض۔ کج مَكْرَام: اَرْض مَكْرَمَة لِلنَّبَات: عمدہ زرخیز زمین۔

الْمَكْرَم وَالْمَكْرَمَة: کرم کا فعل۔ کریم۔ کہا جاتا ہے "فِعْلُ الْخَيْرِ مَكْرَمَة" یعنی فعلِ خیر کرم یا تنظیم کا سبب ہے۔

الْمَكْرَام: لوگوں کا اکرام کرنے والا۔ بہت فیاض۔

الْمَكْرَم: مفتح۔ ہر ایک کے نزدیک باعزت شخص۔

كُزْنِب الرُّجُل: چھوڑے کو دودھ کے ساتھ کھانا۔ ضَيْفَة: مہمان کو کرم کلا کھانا۔

الْكُزْنِب وَالْكُزْنِب: کرم کلا۔

الْكُزْنِبِيَّة: ایک قسم کا کھانا جو کرم کلا سے بنایا جاتا ہے۔

فَرَاثَةُ الْكُزْنِب: او ذَوْقَةُ الْمَلْفُوف: کرم کلا کو تباہ کرنے والا سفید کیزرا۔

كُزْنِف الْكُزْنِب: کھجور کی ٹہنی کو کاٹ لینے کے بعد تہ میں جو حصہ باقی رہ جائے اس کو

کاٹنا کُزْنِفُهُ بِالْقَصَا: لائحی سے مارنا۔ كُزْنِف الشَّيْءَ بِالسَّيْف: تلوار سے کاٹنا۔

السُّخْلَة: تنہ کو کھجور کی ٹہنی کے باقی ماندہ حصہ سے صاف کرنا۔

الْكُزْنَف وَالْكُزْنَف: کھجور کی ٹہنی کو کاٹ لینے کے بعد تہ میں باقی ماندہ حصہ۔ واحد

كُزْنَفَة كُزْنِب: کُزْنِب۔

أَنْفٌ مُكْرَف: موٹی ناک۔

كُزْرَة (س) كُزْرَهَا وَكُزْرَاهَة وَكُزْرَاهَة وَكُزْرَاهِيَّة وَمَكْرَهَة وَالْمَكْرَهَة الشَّيْءُ:

ناپسند کرنا۔ صفتِ فاعلی کسارہ: صفتِ مفعولی مَكْرُوْة۔

كُزْرَة (ك) كُزْرَاهَة وَكُزْرَاهِيَّة الْأَمْرُ او الْمَنْظَرُ: قبیح ہونا۔ صفتِ كُزْرِيَّة۔

كُزْرَة الشَّيْءِ فَلَانًا وَكُزْرَة الشَّيْءِ إِلَى فَلَانٍ: ناپسند کرانا۔

أَكْرَهَة. فَلَانًا عَلَى الْأَمْرِ: مجبور کرنا۔

الرُّجُل: ناپسندیدہ امر پر اُکسانا۔

تَكْرَهَة وَتَكْرَاهَة الشَّيْءِ: ناپسند کرنا۔ تَكْرَهَة وَتَكْرَاهَة: غضبناک ہونا۔

إِسْتَكْرَهَة الشَّيْءِ: قبیح پانا، قبیح سمجھنا۔

الْكُزْرَه وَالْكُزْرَه: مص۔ انکار۔ مشقت جس پر کسی کو مجبور کیا جائے اور بقول بعض كُزْرَه بِالضَّم: جس پر تم اپنے آپ کو مجبور کرو اور

كُزْرَة: بافتح جس پر کسی غیر کو مجبور کرو۔ اور کہا جاتا ہے "شئ كُزْرَه" کُزْرَه چیز۔ و"رَجُلٌ كُزْرَه" ناراض مرد"وَجْهٌ كُزْرَه" قبیح چہرہ

"وَقَعْلُهُ كُزْرَه" یعنی اس نے اس کو مجبوراً کیا۔

الْكُزْرَه: قبیح۔

الْكُزْرَاهَة: مص۔ سخت زمین۔

الْكُزْرَاهِيْن: کراہت۔ کہا جاتا ہے: "أَتَيْتُكَ كُزْرَاهِيْن أَنْ تَغْضَبَ" تیرے غضبناک ہونے کی کراہت سے میں تیرے پاس آیا۔

الْكُزْرِيَّة: مَوْنَت كُزْرِيَّة لِرَأْيِي كِي شِدْت - مصیبت۔ کج كُزْرَالِه. ذَوْأ الْكُزْرِيَّة: بشمیر براں۔ کہا جاتا ہے "أَلْقَيْتُ ذَوْقَهُ كُزْرَانِه وَمَكْرَاهَة" اس کے ورے مصیبتوں اور

مکروہات سے میں دوچار ہوا۔ الْمَكْرَهَة: مکروہ۔ کج مَكْرَاهَة۔

الْمَكْرَهَة وَالْمَكْرَهَة: ناپسندیدہ و دشوار چیز۔ کج مَكْرَاهَة۔

الْمَكْرَهَة وَالْمَكْرَهَة: ناپسندیدہ و دشوار چیز۔ کج مَكْرَاهَة۔

الْمَكْرَهَة وَالْمَكْرَهَة: ناپسندیدہ و دشوار چیز۔ کج مَكْرَاهَة۔

كُزْرَى تَكْرِيًّا: عونا۔

الْمَكْرُوْة: مفتح۔ شر۔ ناپسندیدہ۔

الْمَكْرُوْهَة: کجی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ ذَوْأ مَكْرُوْهَة" وہ کجی میں ہے۔

تَكْرَائِكُرُوْ كُزْرًا. الْأَرْضُ: کھودنا۔ الْأَمْرُ: بار بار اعادہ کرنا۔ الْبَسْرُ: کونین کا

من درخت کے تنوں سے بنانا۔ بِالْكُزْرَة: گیند کھیلنا۔ كُزْرَت الدَّيَاة: تیز دوڑنا۔

كُزْرِيَّة تَكْرِي كُزْرًا. السَّاقِي: پنڈلی کا باریک ہونا۔ الْمَسْرَاقَة: موٹے بازوؤں

والی ہونا۔

الْكُزْرَا: بازوؤں کی موٹائی۔ قدم کے نیچے کا قریب ہونا اور ایڑیوں کا دور ہونا یا پنڈلیوں

کی باریکی۔ كُزْرَان كَانْدَكْر۔

الْكُزْرَان: ایک پرندہ۔ بھورے رنگ کا لمبی چونچ کا اور کہا جاتا ہے کہ وہ رات کو سوتا

نہیں اور اس کا نام ایسا رکھا گیا ہے جو ضد پر دلالت کرتا ہے اس وجہ سے کہ کرنی کے معنی

نیند کے ہیں مَوْنَت كُزْرَانَة. کج كُزْرَان وَكُزْرَانِيْن.

الْكُزْرَة: ہر وہ چیز جس کو تم گول بناؤ۔ ہر گول چیز اور نسبت کیلئے كُزْرَوِي وَكُزْرِي كُزْرِي وَكُزْرِيْن وَكُزْرِيْن وَكُزْرَات وَكُزْر.

الْكُزْرَوِيَا وَالْكُزْرَوِيَاءُ: زیرہ۔

كُزْرِي يَكْرِي كُزْرَا الرُّجُل: تیز دوڑنا۔ النَهْرُ: نہر کھودنا۔ بِالْكُزْرَة: گیند کھیلنا۔

كُزْرِي يَكْرِي كُزْرَا الرُّجُل: اوٹھنا۔ صفتِ كُزْرَوِي وَكُزْرِي.

كُزْرَاهَة مُكْرَاهَة وَكُزْرَاهَة الدَّيَاة او الدَّار: چوپایہ یا مکان کرایہ پر دینا۔ صفتِ مُكْرَاهَة.

أَكْرِي إِكْرَاهَة الشَّيْءِ: زیادہ ہونا۔ کم ہونا۔ (ضد)..... فَلَانٌ: اطاعت الہی میں شب

بیداری کرنا۔ الْأَمْرُ: مَوْنَت كُزْرَانَة. بچھڑانا..... الْحَدِيْثُ: بات طویل کرنا۔ فَلَانٌ ذَاتَهْ او ذَارَهْ: چوپایہ یا مکان کرایہ پر دینا

اور اسم۔

الْكُزْرَوِي وَالْكُزْرَوِيَّة: کُزْرَوِيَّة۔

تَكْرِي تَكْرِيًّا: عونا۔

اِحْسَرَى مِنْهُ الذَّارَ وَغَيْرَهَا: مکان وغیرہ کرایہ پر لینا۔
 تَحَارَى وَاسْتَحْرَى الذَّارَ وَغَيْرَهَا: مکان وغیرہ کرایہ پر لینا۔
 الْكِرَاءُ وَالْجِرْوَةُ: کرایہ۔
 الْحُرْبِيُّ: اُوکھنے والا۔ کرایہ پر لینے والا۔
 کرایہ پر دینے والا۔ ج اکر بے بہت چیز۔ ایک درخت ہے جو ریگستان میں ہوتا ہے۔ واحد کُرْبِيَّةٌ۔
 الْكُرْبِيَانُ: اُوکھنے والا۔
 الْحُمْكَارِيُّ: جانوروں کو کرایہ پر دینے والا۔
 ج مُكَارُونَ: اور اب اکثر کدھے اور نچر والوں پر بولا جاتا ہے۔
 الْحُمْكَرِيُّ مِنَ الْإِبِلِ: آہستہ وزم رفتار اُونٹ۔
 كَمْزٌ (ن) كَمْزٌ الشَّيْءُ: تنگ کرنا۔ كَمْزٌ خَطَاةٌ: قدم قریب قریب ہونا..... السَّمْرَاءُ وَمُلْتَجِهَا: عورت کا بازو بند کو بازو سے بھر دینا (..... كَمْزَاةٌ وَكَمْزُوْرَةٌ) سَکڑنا۔ خشک ہونا۔
 كَمْزٌ: سردی سے کچی لائق ہونا۔ ز کام ہونا۔
 اَكْمَزُ: اللہ فلانا: کچی کی باری لگانا۔ صفت مفعولی۔ مَكْمَزُوْرٌ۔
 اِكْمَزُ: سَکڑنا۔
 الْكَمْزُ: بھس۔ سَکڑا ہوا۔ خشک۔ کہا جاتا ہے "وَجْهٌ كَمْزٌ" یعنی قبیح چہرہ۔ "وَذَهَبٌ اَوْ جَمَلٌ كَمْزٌ" یعنی بہت ٹھوس اور مضبوط۔
 "وَفَلَانٌ كَمْزٌ الْيَدَيْنِ" فلاں بخیل ہے۔ ج كَمْزٌ۔
 الْكَمْزَةُ: كَمْزٌ: کامؤنٹ۔ کہا جاتا ہے "قَوْمٌ كَمْزَةٌ" یعنی ایسی کمان جس کی لکڑی خشک ہے مڑنی نہیں۔ "وَبِكْمَزَةٍ كَمْزَةٌ" یعنی تنگ چرخی۔
 الْكَمْزَانُ: کجاوہ کے پچھلے حصہ کی دو لکڑیاں۔
 الْكَمْزُ: بخل۔
 الْكَمْزَاةُ وَالْكَمْزُوْرَةُ: سخت سردی کی وجہ سے کچی یا ایک مرض کا نام۔

كَمْزٌ (س) كَمْزَانَا: مُشَطُّ الرَّجُلِ: پاؤں کی ہڈی کا چھوٹا ہونا، سَکڑنا۔
 الْكَمْزَةُ وَالْكَمْزُوْرَةُ وَالْكَمْزُوْرَةُ: دھنیا کا پودہ اور دھنیا کو چلان کہتے ہیں۔
 كَمْزَمٌ (ن) كَمْزَمَانَهُ: بند کرنا اور چپ رہنا۔
 السَّجْوَزَةُ وَنَحْوَهَا: اخروٹ وغیرہ کو اگلے دانوں سے توڑنا اور گرمی نکالنا.....: سخت دانت کا ثنا۔
 كَمْزَمٌ (س) كَمْزَمَانَا: بخیل ہونا۔ بہت کھانے والا ہونا۔ چھوٹی ناک یا انگلی والا ہونا۔ صفت اَكَمْزَمٌ: پیش قدمی سے ڈرنا۔
 كَمْزَمٌ التَّبْرَةُ أَصَابِعُهُ: سردی کا انگلیوں کو سَکڑا دینا۔
 اَكَمْزَمٌ: سَکڑنا..... عَنِ الطَّعَامِ: بہت کھانا یہاں تک کہ خواہش باقی نہ رہے۔
 تَكَمْزَمُ الْفَاكِهَةَ: میوہ بغیر چھیلے ہوئے کھانا۔
 الْكَمْزَمُ: تنگ پھیلی۔ چھوٹی انگلیوں والا۔
 الْكَمْزَمُ: بخل۔ بہت کھانا۔ ناک یا انگلیوں کی کوتاہی۔ گھوڑے وغیرہ کے ہونٹ کی چھوٹائی اور موٹائی کہا جاتا ہے "فِي يَدَيْهِ كَمْزَمٌ" جبکہ افعال خیر کے لئے ہاتھ نہ کھلے۔
 الْكَمْزَمُ مِنَ الرَّجَالِ: بزدل خائف مرد۔
 الْكَمْزَمَانُ مِنَ الرَّجَالِ: اتنا کھانے والا کہ ناپسند کرنے لگے۔
 الْمُتَكَمْزَمُ: چھوٹی پھیلی اور قدم والا۔
 كَمْزَى يَكَمْزَى كَمْزَانَا: اپنے آزاد کردہ سے احسان کرنا۔
 كَمْسٌ (ن) كَمْسَا الشَّيْءُ: باریک کوٹنا۔
 كَمْسٌ (س) كَمْسَا: چھوٹے چھوٹے دانوں والا ہونا۔ چھوٹے تالو والا ہونا۔ صفت اَكْمَسٌ: مؤنث كَمْسَاءُ ج كَمْسٌ۔
 الْكَمْسُ: اندام نہانی۔
 الْكَمْسِيْسُ: ٹوٹی ہوئی روٹی، شکر اور بقول بعض جو اور چینا سے بنی ہوئی شراب۔ کھجور کی نبیذ۔ خشک شدہ گوشت کہ اس کو کوٹ کر باریک کر لیتے ہیں اور بطور توشہ کے سفر میں

لے جاتے ہیں۔
 الْمَكْمُوسُ: مٹخ۔ ٹوٹی ہوئی روٹی۔
 كَمْسَاءُ (ف) كَمْسَاءُ: پچھا کرنا۔
 كَمْسَا الذَّابَةَ: چوپایہ کو ہانکنا..... الْقَوْمُ: خصومت میں غالب آنا..... بِالسَّيْفِ: تلوار سے مارنا۔
 الْكَمْسُ: مِنَ اللَّيْلِ: رات کا ایک کلا۔
 الْكَمْسُ وَالْكَمْسُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: پچھلا حصہ ج اَكْمَسَاءُ: کہا جاتا ہے "رَبِيبٌ كَمْسَاءٌ" یعنی وہ گدی کے بل گرا "وَأَتَيْنَا فَيْئَا اَكْمَسَاءِ الشَّهْرِ" یعنی ہم مہینہ کے آخر میں آئے۔
 "وَمَرُوا فَيْئَا اَكْمَسَاءِ الْمُنْهَرِ مِيْنِ اَوْ عَلِي اَكْمَسَاءِ هِمٌ" یعنی وہ لوگ نکت خورہ جماعت کے نشان قدم پر اور ان کے پیچھے رہ گئے۔
 كَمْسٌ (ض) كَمْسَا وَكَمْسَا وَتَكْمَبٌ وَاِكْتَسَبَ مَا لَا اَوْ عَلِمَا: مال یا علم حاصل کرنا۔ طلب کرنا۔ کمائی کرنا۔ كَمْسَبُ الشَّيْءِ: جمع کرنا۔ كَمْسَبُ الْإِثْمِ: گناہ اٹھانا..... لِأَهْلِيهِ: کمائی کرنا۔
 كَمْسَبٌ وَكَمْسَبٌ وَاِكْتَسَبَ فَلَانًا مَا لَا اَوْ عَلِمَا: مال یا علم حاصل کرنا۔
 اِكْتَسَبَ وَتَكْمَبَ فَلَانًا: کمائی کرنا۔
 تَكْمَبُ الرَّجُلُ: کمائی کی کوشش کرنا۔
 الْكَمْسَبُ: بھس۔ کمائی۔
 الْكَيْسَبَةُ الْكَيْسَبِيَّةُ: کمائی۔
 الْكَيْسَبُ: فا۔ ابو کاسب: بھیڑیا۔
 الْكَيْسَبِيَّةُ: کاسب کا مؤنث ج كَمْوَابِبُ الْكَمْوَابِبُ: انسان یا پرندہ کے جسم کے جوڑ۔ شکاری جانور۔
 الْكَمْسُوبُ وَالْكَسَابُ: بہت کمائی کرنے والا۔
 الْمَكْمَبُ وَالْمَكْمَبِيَّةُ: کمائی۔
 اَلْكَسْبَانَا: ایک معروف درخت شاہ بلوط۔
 ابوفرہ۔ اس کے پھلوں کو بھون کر کھایا جاتا ہے۔ كَمْسَنَةُ الْحِضَانِ اَوْ قَسْطَلَةٌ

الکسار والکسارۃ من الخطب ونحوه:
کھورا۔ چھٹی۔

الکسیر: ٹوٹا ہوا۔ ج کسری و کساری۔
الاکسیر: وہ چیز جو چاندی وغیرہ کو سونا بنا
وے۔

التکسیر: مص۔ والتکسیر عند
المهندسین: پیمائش۔

الکاسیر: فاج کسیر: عقاب۔ کہا جاتا
ہے عقاب کاسیر: ٹوٹ پڑنے والا یا شکار
کئے ہوئے جانور کو توڑ دینے والا عقاب۔
کاسیر الحجر أو القلب: پہاڑی علاقے
کا پھول۔

الکاسیرۃ: کاسر کا مؤنث ج کاسیرات
وکسیر وکواسیر۔ الکواسیر: شکاری
پرندے۔

التکسر: (فی الطب) وہ حالت جو جسم میں
کمزوری والی ٹھنڈک اور چمڑے اور ہجستوں
میں بد حالی پیدا کر دے۔

الانکسار: (غلیات) ایسی شعاع کی جہت
میں تبدیلی جو شفاف مادے سے گزر کر
دوسرے مادے کے وسط تک چلی جاتی ہے۔
الکسار: اسم مبالغہ۔

المکسیر: توڑنے کی جگہ۔ مکسیر
الشجرة: درخت کی جڑ یا درخت کا تنہ
جہاں سے ٹہنیاں توڑی جائیں۔ آزمائش۔
کہا جاتا ہے "فلان طیب المکسیر" فلاں
آزمائش کے وقت اچھا ہے۔

المکاسیر من الجیزان: پڑوسی جس کے
مکان کا گوشہ تمہارے مکان کے گوشہ سے ملا
ہوا ہو۔ کہا جاتا ہے "هو جارى مکاسیری"
وہ میرا پڑوسی ہے کہ اس کے مکان کا گوشہ
میرے مکان کے گوشہ سے ملا ہوا ہے۔

المکسر: مفتح۔ المکسر من الاودیة:
وادی جس کے موڑ بہر رہے ہوں۔ الجمع
المکسر: جمع سالم کی ضد۔ جس میں واحد
وزن باقی نہ رہے۔ جیسے زجل سے رجال۔
مسجد: سے مساجد۔

المکسور: مفتح۔ صوت مکسور: نرم و
کمزور آواز۔

المکسیر: فاج۔ کہا جاتا ہے "زائنتہ
مکسیرا" میں نے اس کو ست دیکھا۔

کسعۃ (ف) کسعۃ: دھکارنا۔ دھکارتے
ہوئے پیچھا کرتا۔ چوڑوں پر ہاتھ پالات
مارنا۔ کسع السفینۃ فی البحر: شتی کو
سمندر میں اتارنا اور چلانا۔ کسعۃ بکذا:
تابع بنانا۔ کہا جاتا ہے "وزدت الخیل
یکسع بغضها بغضا" گھوڑے آئے اس
حال میں کہ بعض بعض کے پیچھے تھے۔
"واتبع فلان اذبا زهم یکنعهم"
بالتیف" فلاں ان کے پیچھے گیا اور تلوار
سے ان کو دھکارتا رہا تھا۔ "کسع الرجل
بمساءءه" جبکہ گفتگو کرے اور آخر میں ایسی
بات کہے جو تکلیف دہ ہو۔

کسعۃ واکسعۃ الخیل باذنا بہا:
گھوڑوں کا ٹانگوں میں ڈوم دیا نا۔
تکسع فی ضلالہ: گمراہی کی انتہا کو پہنچنا۔
الکسع فی الخیل: گھوڑے کے کھر کے
پاس جوڑے کے ارد گرد سفیدی۔
الکسع: روٹی کے ٹکڑے۔

الکسعۃ: پیشانی پر سفید واغ۔ پرندہ کی ڈوم
کے نیچے سفید پر۔ ج کسع: کام کرنے
والے تیل۔ گدھے۔ غلام۔
الاکسع: من الخیل: کھر کے پاس جوڑے
کے ارد گرد سفیدی والا گھوڑا۔ من الطیر:
ڈوم کے نیچے سفید پر والا پرندہ۔
زجل مکسع: بے بیابا مرد۔
الکسعوم: گدھا۔

کسف (ض) کسفۃ الفوب: کپڑا کا ٹٹا
..... اللہ الشمس أو القمر: گہن لگانا.....
بصرۃ: نگاہ پست کرنا..... الشمس
النجوم: آفتاب کی روشنی کا ستاروں پر
غالب آنا۔

الشی: ڈھا لگنا۔ کسفۃ الحزن وغیرہ:
غمگین کر دینا۔

کسفت (ض) کسوف الشمس: آفتاب
میں گہن لگانا..... وجہہ: تیوری چڑھنا۔ متغیر
ہونا..... حالۃ: بُرا ہونا۔ کسف أملة: امید
منقطع ہونا..... کسف بالہ: جی میں بُرا
خیال آنا یا امید کا کھونا ہونا۔

تکسفت الشمس: آفتاب میں گہن لگانا۔
انکسفت الشمس والقمر: آفتاب اور
ماہتاب میں گہن لگانا۔

کسف الشی: ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔
الکسف: مص عرب کے امثال سے ہے
"اکسفا واضمنا": یعنی کیا ترش روئی اور
بخل بھی (یہ بھی مثال ترش رو و بخل کے لئے
استعمال ہوتی ہے)

الکسایف: فاج۔ کہا جاتا ہے "فلان کسایف
السال" یعنی فلاں بُرے حال والا ہے
"وکسایف الوجہ": ترش رو "ویوم
کسایف" سخت و خوفناک دن "وردجال
کسایف" غمگین مرد جو غم کی وجہ سے بُرے حال
ہو گیا ہو۔

الکسفۃ: ٹکڑا ج کسف وکسف
وأكسف وکسوف.
الکسفۃ: ٹکڑا۔

الکسفۃ: مص وقف کی حالت میں ک
ضمیر مؤنث کے ساتھ سین ملانا جیسے بکس
وأكسوف بکس بک وأكسوف بک: میں (یہ
لغت بتویم کی ہے)
الکسکس: ایک کھانا ہے جو آٹے سے بنایا
جاتا ہے۔

کسبل (س) کسلا وکسائل: کامل ہونا۔
جس کام سے سستی نہ کرنا چاہئے اس
میں سستی کرنا۔ صفت کسبل وکسلان ج
کسالی وکسالی مؤنث کسبلۃ
وکسلاتۃ وکسلی.

کسبل (س) کسلا وکسائل: بے انزال
کے جماع کرنا یا سنی کو باہر گرانا۔
کسبل الاہر فلانا: کابلی میں ڈالنا۔
الکسائلۃ: بیکاری۔

الکسُول: کابل۔ ناز پروردہ لڑکی کے لئے وصف ہے جو اپنی مجلس سے جدا نہ ہو۔
الکسَل والکسَل: دُنیا کے کمان کی تانت جب کہ آتاری جائے۔ نَسِبٌ یُکسَل: وہ نسب جسے سرداری اور افعال خیر میں خودداری نہ ہو۔

الکسَال: کابل (مذکر مؤنث) ناز پروردہ لڑکی جو اپنی مجلس سے جدا نہ ہو۔ یہ اس کے لئے باعث مدح ہے۔

المکسَلَة: سب کابلی۔ کہا جاتا ہے "الشَّعْبُ مِکسَلَة" آسودگی باعث کابلی ہے "فَلانٌ لَّا تُکسِلُه المکابِل" اسباب کابلی فلاں کو کابل نہیں بناتے۔

کسَم (ش) کسَمنا الیاس: خشک چیز کو ہاتھ سے چورا کرنا۔ غلی عیالہ: کمانی حاصل کرنے کے لئے محنت کرنا۔ ناز الخوب: لڑائی بجز کانا۔

الکسَم: جس۔ خشک چیز کا چورہ جو تمہارے ہاتھوں میں باقی رہ جائے۔
الکسوم: کرگزرنے والا۔

الکیسوم: بہت گھاس۔ کہا جاتا ہے "هذِهِ رَوْضَةٌ کِیسومٌ وَاکسومٌ وِیکسومٌ" یہ سرسبز و شاداب اور گنجان باغ ہے۔

خیل اکاسم: بہت سے گھوڑے جو ایک دوسرے کے اوپر ہوں۔

کسنا یُکسُو کسوا او اُکسَی القوبُ فَلَانًا: کپڑے پہنانا۔ کسنا شعرا: اشعار سے مدح کرنا۔

کسی یُکسی و کسسی کسنا القوب: کپڑا پہننا کسی کسی کسنا: بزرگ ہونا۔
تکسی تکسی بالکسنا: اوڑھنا۔ پہننا۔
کاسی مکاسا فَلَانًا: فخر کرنا۔

اکسسی: لباس پہننا۔ اُکسَی الارضُ بالنبات: نباتات سے چھپ جانا۔ اُکسَیته ثوبًا: کپڑے پہننا۔

اُکسسی فَلَانًا: کسی سے لباس مانگنا۔
الکاسی: نا۔ لباس پہننے والا۔ کسنا۔

الکسَاء: بزرگی و شرف۔

الکسَاء: کپڑا۔ کمل۔ ج اُکسِی.

الکسوة والکسوة: لباس۔ ج کسسی و کسسی.

الاکسسی: بہت پینے والا۔ بہت لباس دینے والا۔ عرب کے امثال میں سے ہے "هُوَ اُکسسی مِن بَصَلَة" اس شخص کے لئے بولتے ہیں جو بہت زیادہ کپڑے پہنے۔

الکسسی: پیوتر کا پچھلا حصہ۔ ہر چیز کا پچھلا حصہ ج اُکسنا: کہا جاتا ہے "زکب اُکسنا" وہ گدی کے بل گرا۔

کسش (ش) کسشاً و کسشفا الزند: آگ نکلنے وقت سائیں سائیں کی آواز نکلتا۔
الخرة: شراب کے ٹکے میں جوش آنا۔

کسش کسشفا العیة: سانپ کی کھال سے آواز نکلتا۔ کسش السجمل: اونٹ کا پہلی مرتبہ بڑا نا۔ البقرة: گائے کا آواز نکالنا۔ کسش السرجل و غیرہ:

دھتکارنا۔ ڈانٹنا۔
تکسش الاقاصی: سانپوں کا آپس میں آواز نکالنا۔

الکسش: وہ چیز جس سے درخت خرما کو گنا بنا دیا جائے۔

الکسشہ: پیشانی یا سر کے اگلے حصہ کے بالوں کا گچھا۔

الکسشش: مص۔ شراب کے جوش کی آواز۔

کسنا (ف) کسنا الشی: چھیلنا۔ اگلے دانتوں سے کاٹ کر کھانا۔ فَلَانًا

بالسیف: تلوار سے مارنا۔ و اُکسنا السخم: گوشت بھون کر خشک کرنا۔ صفت مقعولی کسسی و کسنا الرجل: بھونے ہوئے گوشت کا ٹکڑا کھانا۔ کسنا المرأة: جماع کرنا۔

کسش (س) کسنا و کسنا ایدہ: ہاتھ پھینا۔ جھری دار ہونا۔

کسنا و کسسی کسنا و کسنا تکسنا۔

الرجل من الطعام: حکم یہ ہو کر کھانا۔ صفت کسسی و کسسی۔ تکسنا الشی: چھیل جانا۔ اللخم: خشک بھنا ہوا گوشت کھانا۔
کسنا تکسنا اللخم: خشک بھنا ہوا گوشت کھانا۔

الکسنا: عیب۔ کہا جاتا ہے "مافی جسدہ کسنا" اس کے جسم میں کوئی عیب نہیں۔

کسب (ش) کسباً و کسب اللخم: گوشت بہت کھانا۔

الکسبان انگستانہ ج کسبانین: وزہر الکسبان: ایک قسم کی نباتات۔

الکسوت و الکسوتی و الکسوتی و الکسوتی: ایک قسم کی گھاس ہے جو درخت وغیرہ پر لپٹی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی جڑ نہیں ہوتی اور اس کے پتے بھی نہیں ہوتے۔

کسح (ف) کسحاً الیث: گھر میں جھاڑ دینا۔ القوم: پراگندہ کرنا دھتکارنا۔ عن النساء: تالی پر سے واپس ہونا۔ لہذا

بالعداوة: دشمنی کرنا۔ الدابة: چوپایہ کا ٹانگوں کے درمیان دم دانا۔ الطائر: پرندہ کا تیز واپس آنا۔ الظلام و الضوء: تاریکی یا روشنی کا زائل ہونا۔ و کسح

السود: لکڑی چھیلنا۔ چھال آمارنا۔ البعیر: اونٹ کے پہلو میں داغ لگانا۔ ف: پہلو پر داغ دینا۔

کسح الرجل: پہلو پر داغ دیا جانا۔ صفت مکسوح: کسح القوم عن الماء: متفرق ہونا۔ پراگندہ ہونا۔

کسح (س) کسحاً: ورد پہلو والا ہونا۔ کاسح کساحاً و مکاسحاً فَلَانًا بالعداوة: دشمنی رکھنا۔

انکسح القوم عن الماء: متفرق ہونا۔ بکھرنا۔

تکسح العجاریة: ہرج مہرج کرنا۔
الکسح: مص۔ پہلو۔ ج کسح: کہا جاتا ہے "طوی کسحاً عن فلان او طوی

کشف غنة یعنی اس نے پہلوئیں کی اور اعراض کیا۔ "وطوئى كشفه على الامر" اس نے کام پر مداومت کی۔

الكشف: پہلوئیں کی بیماری جس کا علاج داغ لگانا ہے اور بقول بعض ذات الجب کو کہتے ہیں۔

الكشاف: فاف۔ پوشیدہ دشمنی رکھنے والا۔ اور بقول بعض وہ شخص جو دشمنی کی بنا پر پہلوئیں کرے یا وہ جو تم سے دُوری اختیار کرے اور اعراض کرے۔

الكشاح: پہلو کا داغ۔
الكشافة: باطنی عداوت۔

المكشح والمكشاح: تلوار کی دھار۔
المكشاح: کلباڑا۔

اكشف (ض) كَشَفَ الشَّيْءُ: دانتوں سے کاٹنا..... السَّاقَةُ: اونٹنی کو تین انگلیوں سے دوہنا۔

أكشفه: خالص کھین بنا تا۔
الكشفة: بکھن۔

الكاشد والكشود والكشفد: اہل وعیال کے لئے بہت منت سے کمانے والا۔ ج كُشِد.

كشتر (ض) كَشْتَرًا: عن أنسائه: ہنسی وغیرہ میں دانت نکالنا اور اسم الكشترية.....

السبع عن نسيه: دردے کا مقابلے میں دانت دکھانا..... فلان لك: جیتے جیسا بنتا۔

كشتر (س) كَشْتَرًا: بھاگنا۔
كشتر عن أنسائه: بمعنی كَشْتَرْتُهُ دیکھا ہوا

كشتر عن أنسائه: ہنسی وغیرہ کے لئے ہے۔
كشتره مكشتره: باہم ہنسا۔ باہم دانت نکالنا۔

أكشتر لك عن أنسائه: دھمکی دینا۔
تكشتر: دانت نکالنا۔

الكشتر: مص۔ سوکھی روٹی۔
الكشتر: انگوڑ کا خوشہ جس کے انگوڑ کھائے جا

چکے ہوں۔
المكاشير: فاف۔ السحار المكاشير: قریبی

كشط (ض) كَشَطَا واستكشط الشئ: ڈھکی ہوئی چیز کو کچھ کھولنا۔ كَشَطَ الجُلُّ

عَنِ الفَرَسِ والبغضاء عَنِ الشئ: جھول کر گھوڑے سے یا ڈھکنے کو کسی چیز سے اتارنا۔ ننگا کرنا..... الحسرت: موقع سے ہٹا دینا۔

وكَشَطَ البعير: اونٹ کی کھال اتارنا واستكشط البعير: کھال اتارنے کا وقت قریب ہوتا۔

تكشط السحاب في السماء: آسمان میں بادل ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ پراگندہ ہونا۔

إنكشط: اتارا جاتا۔ ننگا ہونا..... السروع: خوف زائل ہونا۔

الكشاط: قصائی۔
الكشاط: انکشاف۔ اُتری ہوئی کھال۔

الكشطة: کھال اُتری ہوئی اونٹوں کے بالکین۔

كشع (ف) كَشَعَا القوم عن قبييل: قوم کا منتول سے متفرق پراگندہ ہونا۔

كشع (س) كَشَعًا: بدل ہونا۔ زچ ہونا۔
كشع (ض) كَشَعًا وكشافة الشئ

وعن الشئ: ظاہر کرنا۔ کھولنا۔ کہا جاتا ہے "كشفت الله غمته" اللہ اس کے غم کو زائل کرے۔ "كشفته الكواشف" یعنی رسوا کر دیا۔

كشفت (س) كَشَفًا: شکست کھانا.....

الرجل او الفرس: کھلی ہوئی پیشانی والا ہونا۔

كشفت الشئ: کھولنا۔ ظاہر کرنا..... فلاننا

عن الامر: ظاہر کرنے پر مجبور کرنا۔
كشفه بكذا: خبردار کرنا..... ه بالعداوة:

کھلی کھلی دشمنی کرنا۔
أكشف: ہنسنے میں سوڑھوں کو ظاہر کرنا۔

إنكشف الشئ: ظاہر ہونا۔
تكشف الشئ: ظاہر ہونا..... البرق: بجلی کا آسمان پر چیلنا..... الرجل: رسوا ہونا۔

تكاشف القوم: ایک دوسرے کے عیوب کو ظاہر کرنا۔

ظاہر کرنا۔

إنكشف الشئ: ظاہر کرنا۔ کھولنا اور اس سے ہے "الإنكشافات" ان نئی تحقیقات کے لئے جو امور طبعیہ و صنایعیہ میں ظاہر ہوں۔

إنكشف عن الشئ: ظاہر کرنے کو کہنا۔
الكشف: مص..... عند العروضین:

ساتویں متحرک کا گرا دینا۔
الكشف: وہ کاغذ جس میں سامان تجارت کی

مقدار اور اس پر معاوضہ ادا ہونے کی تحریر کیا جاتا ہے۔

الكشف الالهي: عند الصوفيين: جب صوفی ولی اللہ مخصوص طرق عبادت اختیار کرے تو اس پر حقائق الہیہ منکشف ہو جاتے ہیں۔ اصحاب الکشف ان ہی حضرات کو کہا جاتا ہے جن پر کشف ہوتا ہے۔

الكشف: سر کے اگلے حصہ کے بال گر جاتا۔

والكشف في السخيل: دم کے بالوں کی چھیدگی۔

الكشفة: سر کے اگلے حصہ میں بال گرنے کی جگہ۔

الكاشف: فاف۔ ج كَشَفَ.

الكاشفة: مص۔ کاشف کامونٹ۔ رسوائی۔ ج كَوَاشِف.

الكشاف: اسم مبالغہ۔ کہا جاتا ہے "هؤ كشاف الغم" وہ غموں کا زائل کرنے والا ہے۔

الكشيف: جس کے سر کے اگلے حصہ کے بال گر گئے ہوں۔ گھوڑا جس کی دم کے بالوں میں چھیدگی ہو۔ وہ شخص جس کے پاس لڑائی میں نہ ڈھال ہو نہ خود ہو۔ لڑائی میں شکست خوردہ۔

الكشفاء: اکشف: کامونٹ۔
الكشيف: بمعنی مكشوف: کھلا ہوا۔ ظاہر۔
الكشك: جو کا پانی۔ آس جو۔
الكشك: عند غامتنا: ایک قسم کا کھانا جو

کھلی کھلی دشمنی کرنا۔

أكشف: ہنسنے میں سوڑھوں کو ظاہر کرنا۔

إنكشف الشئ: ظاہر ہونا۔
تكشف الشئ: ظاہر ہونا..... البرق: بجلی کا آسمان پر چیلنا..... الرجل: رسوا ہونا۔

تكاشف القوم: ایک دوسرے کے عیوب کو

موتے ستو کو دودھ میں بھلو کر خیر اٹھنے کے بعد پکایا جاتا ہے۔ الكَشْكُ: گنبد دار محل (دخیل)

كَشْكَشْ كَشْكَشَةٌ: بھاگنا۔ كَشْكَشْتِ الخِيَّةُ: سانپ کا کھال سے آواز نکالنا۔ الكَشْكَشَةُ: بمص خمیر خطاب مؤنث کوشین سے بدل لینا۔ جیسے اَكْرَمَشِشْ وَعَلِيَشِشْ اَكْرَمْتِكْ وَعَلِيَكْ: میں۔

الكَشْكُوْلُ وَالْكَشْكُوْلَةُ: بھکاریوں کا قبیل (دخیل) بہاء الدین عالمی کی ایک کتاب کا نام کَشْكُوْلُ ہے اس لئے کہ اس میں مختلف موضوع پر مضامین ہیں۔

كَشْمَ (ن) كَشْمًا وَكَشْمَةً وَكَشْمَتُمْ: الاَنْفُ: ناک جڑ سے کاٹنا۔

كَشِمَ (س) كَشِمًا: پیدائشی یا خاندانی عیب دار ہونا۔ صفت اَكَشِمَ.

كَشَمَ (ض) كَشْمًا القِشَاءُ وَالْحِجْرُزُ: ککڑی یا گاجر بہت حرص سے کھانا۔

اَنْفٌ كَشِمَةٌ وَكَشْمَةٌ: جڑ سے کٹی ہوئی ناک۔

الكَشْمُ وَالْاَكَشْمُ: تیندوا۔ كَشْمَرٌ: رونے کے لئے آمادہ ہونا۔ اَنْفَةٌ: ناک توڑ دینا۔

الكِشْمِشْ: کَشْمَشْ واحد كَشْمِشَةٍ.

كَشَاءٌ يَكْشُوهُ كَشْوًا: دانتوں سے کاٹ کھانا۔

الكَشْيَةُ: گوہ کے پیٹ کی چربی۔ یا اس کی دم کی جڑ۔ ج كَشْيَ.

كَحَصٌ (ض) كَحْصًا القَوْمُ: اکٹھا ہونا۔ كَحِصِيضًا: القَمَاءُ بالنَّاسِ: پانی پر لوگوں کی بہت بھیڑ ہونا۔ (.....) كَحْصًا وَكَحِصِيضًا

الصَّوْثُ: آواز بار یک ہونا۔ اَكْحَصٌ: بھاگنا اور ٹھٹکتا کھانا۔

تَكَحَّصَ وَانْكَحَصَ القَوْمُ: اکٹھا ہونا۔ بھیڑ کرنا۔

الكِصِيصُ: بمص شدت مشقت کی وجہ سے بیچ و تاب۔ خوف۔ اضطراب۔ ٹڈی کی

آواز۔ موٹا پست قدم مرد۔ مکروہ۔

الكَهْيِيضَةُ: جماعت۔ ہرن کے پھنسانے کا پھندا۔ ج كَهْيَانِصْ.

كَهْصٌ: تیز چلنا۔ كَهْصَمَ (ض) كَهْصَوْمًا: پشت پھیرنا۔ پیچھ دکھانا۔ (.....) كَهْصَمًا: دانتوں سے کاٹنا۔

الرَّجُلُ: سختی سے ہانا۔ كَهْصَى يَكْهِيصُ كَهْصِيًا: رفعت کے بعد خمیس ہونا۔

كَهْصَصٌ: تیز چلنا۔ كَهْصَلَ (ن) كَهْصَلًا: ہانا ڈور پھینکنا۔

كَهْظٌ (ن) كَهْظًا: زیادہ بھرنے سے سانس نہ لینے دینا۔ (.....) الْغَيْظُ صَدْرَةٌ: سخت غضبناک ہونا۔ الْخَيْلُ: رتھی باندھنا۔

خَضَمَةٌ: چاروں طرف سے گھیر دینا۔ (.....) كَهْظًا وَكَهْظًا: الامْرُ فُلَانًا: عمل کن کرنا۔

بِتَلَائِ كَرْبٍ كَرْنَا۔ يُوْجِئِلُ كَرْنَا۔ الْمَسِيْلُ بِالْمَاءِ: پانی کی زیادتی سے بہاؤ کی جگہ کا تنگ ہونا۔

كَهْظُهُ كَهْظًا وَمُكَاهَظَةٌ: جنگ میں سخت اور جرم مقابلہ کرنا۔

تَكَهَظُ القَوْمُ: میدان جنگ کو تنگ کرنا۔ وَشَشِيٌّ: حد سے گزرتا۔

اَكْهَظُ مِنَ الطَّعَامِ: سانس نہ لے سکنے کی حد تک بھر لینا۔ (.....) الْمَسِيْلُ بِالْمَاءِ: پانی کی زیادتی سے بہاؤ کی جگہ کا تنگ ہونا۔ (.....)

الْمَحَلُّ: لوگوں سے بھر جانا۔ اِكْهَظُهُ الْغَيْظُ: سینہ کا غصہ سے بھر جانا۔

الكِهْظَةُ: بدبھمی۔ زیادہ پیٹ بھر جانے کی تکلیف۔

الكِهْظَاظُ: بمص۔ تھکن۔ سختی۔ غم جو دل کو بھر دے۔ عداوت۔

الكَهْظُ: بمص کہا جاتا ہے "زَجُلٌ كَهْظٌ" سخت گیر مرد۔ (.....) وَالْكَهْظِيْظُ وَالْمُكَهْظُظُ وَالْمَكْهَظُوْظُ: وہ شخص جس کو امور گرا بنا کر دیں اور وہ عاجز ہو جائے۔ بہت زیادہ

غضبناک۔

الكَهْظِيْظُ وَالْمَكْهَظُوْظُ: کھانے سے بھرا ہوا۔ قلم بھر۔

الكَهْظِيْظُ: بھیڑ۔ انبوہ۔ کہا جاتا ہے "عَلِيٌّ بِسَابِ فُلَانٍ كَهْظِيْظٌ" فلاں کے دروازہ پر بھیڑ ہے۔

طَعَامٌ مُكْهَظَةٌ: بدبھمی والا کھانا۔ كَهْظَبٌ (ن) كَهْظُونًا: بہت موٹا ہونا۔

كَهْظَرٌ (ن) كَهْظَرًا: القَوَسُ: کمان کے کنارے پر تانت لگانے کے لئے دندانہ بنانا۔ (.....) الزَّنْدَةُ: چتھماق سے دندانہ بنانا۔

الكَهْظَرُ: کمان کے کناروں پر تانت کا حلقہ لگانے کی جگہ۔ گردہ کی چربی۔ (.....) وَالْكَهْظَرَةُ: گردہ کی جگہ جب کہ گردے نکال لئے جائیں۔

الكَهْظَرُ: بھلی کی ہڈی کے درمیان کی جگہ۔ كَهْظَمَ (ض) كَهْظَمًا: البَابُ: دروازہ بند کرنا۔ (.....) الْفَهْرُ: شہر کو روکنا۔ (.....) الْقَرْبَةُ: منگ بھرنا اور منہ باندھنا۔ (.....) الْبَعِيْرُ بِالْكَهْظَامَةِ: اونٹ کو تکیل لگانا۔ (.....) الشَّيْءُ وَعَلَى الشَّيْءِ: روکنا۔ (.....) كَهْظُوْمًا الْبَعِيْرُ: اونٹ کا جالی کرنے سے باز رہنا۔ کہا جاتا ہے "مَا كَهْظَمَ فُلَانٌ عَلَيَّ جَرِيْبَهُ" یعنی فلاں کے پیٹ میں بات چیتی نہیں۔ (.....) كَهْظَمًا وَكَهْظُوْمًا: غیظہ۔ غصہ نکل جانا۔

كَهْظَمَ كَهْظُوْمًا: خاموش رہنا۔ الكَهْظَمُ: سانس کی نالی۔ ج اَكْهَظَامُ وَكَهْظَامُ کہا جاتا ہے "اَخَذْتُ بِكَهْظَمِيْهِ" یعنی اس کو تم میں بتلا کر دیا۔

الكَهْظَامُ: بند کرنے کی چیز۔ کہا جاتا ہے "اَخَذْتُ بِكَهْظَامِ الامْرِ" یعنی اس نے بھروسہ کے لائق چیز کو اختیار کیا۔

الكَهْظَامَةُ: وادی کا دہانہ۔ اُونْتُ كَيْلِيلٌ: ترازو کی رسیوں کا حلقہ۔ کہا جاتا ہے "عَقَدْتُ الخَيْوُوْظُ فِي كَهْظَامَتِي الْمِيْزَانَ" یعنی اس نے ترازو کی ڈنڈی کے دونوں حلقوں میں دھاگے باندھ دیئے الكَهْظَامَةُ: زمین کے

کھانے سے بھرا ہوا۔ قلم بھر۔

بھیڑ ہے۔

بہت موٹا ہونا۔

کمان کے کناروں پر تانت کا حلقہ لگانے کی جگہ۔ گردہ کی چربی۔ (.....) وَالْكَهْظَرَةُ: گردہ کی جگہ جب کہ گردے نکال لئے جائیں۔

بھلی کی ہڈی کے درمیان کی جگہ۔

کمان کے کناروں پر تانت کا حلقہ لگانے کی جگہ۔ گردہ کی چربی۔ (.....) وَالْكَهْظَرَةُ: گردہ کی جگہ جب کہ گردے نکال لئے جائیں۔

بھلی کی ہڈی کے درمیان کی جگہ۔

کمان کے کناروں پر تانت کا حلقہ لگانے کی جگہ۔ گردہ کی چربی۔ (.....) وَالْكَهْظَرَةُ: گردہ کی جگہ جب کہ گردے نکال لئے جائیں۔

بھلی کی ہڈی کے درمیان کی جگہ۔

کمان کے کناروں پر تانت کا حلقہ لگانے کی جگہ۔ گردہ کی چربی۔ (.....) وَالْكَهْظَرَةُ: گردہ کی جگہ جب کہ گردے نکال لئے جائیں۔

مونا سرین۔ گیہوں کا کوڑا کرکٹ جو صاف کرتے وقت پھینک دیا جائے۔ پانچخانہ جو اونٹ کی دم پر خشک ہو جائے۔ کُغْبِرَة الحیض: مونٹھے کا گول حصہ۔ کُغْبِرَة السوظیف: پنڈلی کے نچلے حصہ کے ملنے کی جگہ۔ ج کُغْبَیر۔ کُغْبَیر: کُغْبَیر: بدیوں کے سرے۔

کُغْبِرَة: جمع شدہ۔ غلہ میں سے جو پھینک دیا جائے ج کُغْبَیر۔
أَكْفَت الرَجُلُ: تیز چلنا۔ بیٹھنا۔ غصہ سے پھولنا۔

الکف: پست قدم۔ مؤنث کُفَة۔
الكفنة: شیشی کا سر بند۔

كُغْبِر: تیز چلنا۔ تیز دوڑنا۔ فسی فُشِبِه: مستانہ چال چلنا۔ چلنے میں لڑکھڑانا۔
الكفتر: چڑیا کی مانند ایک پرندہ۔

الكفد: گون۔
الكفدة: شیشی کا سر بند۔
الكفذب: فرودا۔ بے مروت مرد۔
الكفذبة: پانی کا بلبلہ۔

كعور (س) كعور الصبی: پر شکم ہونا۔ مونا ہونا۔ صفت كعور كعور البطن: پیٹ بھرنا۔ مونا ہونا۔ کُغْبِر و کُغْبِر و کُغْبِر البعیر: اونٹ کے گوبان میں گرہ دار چربی ہونا۔

كعور يكعور كعورا: ملامت کرنا۔
الكعور: گوبان۔

الكعورة: غنود کے مانند گوشت میں گرہ دار چربی۔
الكعورة: بڑی ناک والا۔

كعور (ف) كعورا: انگلیوں سے چننا۔
الكعور: ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کی بدی۔ گائے اور بکری کے پائے کی بدی۔ ج کعور۔

كعور كعورة الرجل: دوڑنا۔ بھاگنا۔
كعور كعور الرجل: تیز چلنا۔ مستانہ چال چلنا۔ چلنے میں لڑکھڑانا۔

كعور كعور: پیٹھ دے کر بھاگنا۔

والا۔ الكعب: پانہ۔ کھی کا گلا۔ برتن کا باقی ماندہ دودھ ج کعب و کعباب و الكعب في علم الهندسة: مربع جسم۔
الكعب: بدیوں کا جوڑ۔ قدم کے اوپر ابھری ہوئی بدی۔ فتح۔ ج کعباب و كعوب و الكعب۔

الكعب: نزد کے مہرے۔ واحد كعب و كعبية۔
كعب عذب ما: تین برابر اعداد کا حاصل ضرب جیسے ۶ کا کعب ۶×۶×۶

الكعب: ابھری ہوئی پستان۔
الكعبية: نزد کا مہرہ۔ ہر چوکور مکان۔ جمرہ کو۔ بیت اللہ الحرام۔ ج کعباب و کعبات۔

الكعبية: دو شیرگی۔
جارية كعباب و كععب: ابھری ہوئی پستان والی لڑکی۔ کہا جاتا ہے "وَجارية كععب"۔

الكعاب: جن العجوازی والشیدی: ابھری ہوئی پستان والی لڑکی یا ابھری ہوئی پستان ج کعواعب۔

السكعب: مربع جسم۔ وہ جسم جس کی چھ سطحیں ہوں اور لمبائی چوڑائی موائی سب برابر ہو۔ وفي الحساب كععب العدد: چوگنے کا حاصل ضرب۔ جیسے آٹھ دو کا کعب۔ فذی۔

كععب: ابھری ہوئی پستان (یہ نادر ہے)
كعبية: کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی کھجور کے لئے زمینبل۔

كعبيرة كعبيرة بالسيف: تلوار سے کاٹنا۔
كعبیر کرنا۔

الكعبيرة: مص..... من النساء: عجمی اکھڑ عورت۔

الكعبير من العسل: شہد کے جھت میں جو جمع ہو۔

الكعبيرة: سخت گرہ دار بدی۔ بندوست۔
گوشت کا گلا۔ ہر جمع شدہ چیز۔ سر کی جڑ۔

اندر پانی کی نالی۔ كطامة الباب: دروازہ بند کرنے کی چیز (.....) والکظیمہ) دو قریب قریب کنوؤں کے درمیان نالی۔

الکظیمہ: تو شدان۔ ج كظایم۔
الکاظم: فا۔ خاموش۔ ج كظم۔ بعبیر کاظم: پیاسا اونٹ۔

اہل كظوم: اونٹ جو جگالی نہ کرے۔
الکظیم والمكظوم: مصیبت زدہ۔
الکظیم: دروازہ بند کرنے کی چیز۔

كظا يكظو كظوا الحمة: گوشت سخت ہونا۔
تكظي لحمه سمنًا: موائی کی وجہ سے گوشت کا بلند ہونا۔

أرض كظلية: خشک زمین۔
كع (نض) كعسا و كعوعسا و كعاعة و كعبوعة: کمزور ہونا۔ بزدل ہونا۔

كع فلانا: خوف دلانا۔ بزدل بنانا..... فی كلامه: کلام میں رکنا..... الخوف فلانا: ارادہ سے باز رکھنا۔

الكع والكعاع: کمزور۔ بزدل۔ کہا جاتا ہے "فلان كع الوجه" فلاں سب رخسار ہے۔

كعبت (نض) كعبونا و كعبونة و كعبانة الجارية: لڑکی کا ابھری ہوئی پستان والی ہونا۔ صفت كعباب و كعاب۔

كعب (ف) كعبونا اللدئی: پستان ابھرنے۔ (..... كعبا) الإناء: برتن بھرنا..... فلائنا: خشک چیز مثلاً سرو غیرہ پر مارنا۔

كعب الأناة: برتن بھرنا..... الشی: چوکور بنانا۔ كعبت الجارية: لڑکی کا ابھری ہوئی پستان والی ہونا۔

الكعب: دو پوروں کے درمیان کی گرہ۔ نیزہ کی گرہ۔ ہر بلند و مرتفع چیز۔ بزرگی و شرف ج كعوب: کہا جاتا ہے "أغلسي الله كعبهم" اللہ ان کی شان کو بلند کرے۔

و"فكعب كعبهم" ان کی عزت تباہ ہوگئی و"رجل عالى الكعب" مرد بڑی بزرگی

الکفعم: گورخر۔ ج کفعمیم۔

كَمَطَلٌ كَمَطَلَةٌ: تیز دوڑنا۔ بیدہ: انگرائی لینے میں ہاتھ پھیلانا۔

الکعیظ والمكعظ: پست قدم۔ موٹا مرد۔

كَمَطَلٌ كَمَطَلَةٌ: تیز دوڑنا۔ آہستہ دوڑنا۔

بیدہ: انگرائی لینے میں ہاتھ پھیلانا۔

الکفک: کیک۔ واحد کفکجہ۔ ج کفکجات (دخیل)

تَكْفَلُ التَّمْرَ وَنَحْوَهُ: ایک دوسرے کے ساتھ گھما ہوا ہونا۔

الکفعل: کھیل۔ بالدار۔ پانچاند گوبر (.....) والکفل: کالا پست قدم۔

السكفيل: غصہ سے پھولا ہوا۔ چوتروں کو حرکت دینے والا۔

كَعَمَ (ف) كَعَمًا الوعاء: برتن کا منہ باندھنا۔ البعير: اونٹ کو تھو تھنی لگانا۔

الحوف فلانا: بھانا۔ الصوأة: عورت کا بوسہ لینا۔

الکعم: ہتھیار کا گیس۔ نیام۔ ج کعمام۔

الکعم ج کعمم والکعمامة: تھو تھنی جس سے اونٹ کے منہ کو باندھ دیتے ہیں تاکہ کھا اور کاٹ نہ سکے۔

كَعُومٌ الطریق: راستہ کے دہانے۔

بَعِيرٌ مَكْعُومٌ: تھو تھنی چڑھایا ہوا اونٹ۔

أَكْعَنَ الرَّجُلُ: ست ہونا۔ نشاط میں کمی ہونا۔

تَبَسَّ مَكْعَبُ الْقُرْبَى: پیچیدہ سینگ والا بکرا۔

تَكْفَشُ الطائر: پرندہ کا جال میں پھنسا۔

..... فَلَانٌ فِي الشَّى: مستغرق ہونا۔

كَعَا يَكْعُو كَعُومًا: بزدل ہونا۔

الکاعی: فاقہ۔ ٹکست خوردہ۔

الاکعاع: بزدل لوگ۔

الکعوة: وہ جو کفایت کرے۔

الکاعد والکاعد: کانغہ۔

الکاعیدی: کانغہ پیچنے والا۔

كَفَّ (ن) كَفًّا وَكَفَافَةً: التوب۔ بکتر

کرنے کے بعد دوبارہ سینا (..... کففا)

الإناء: برتن کو بہت بھرنا۔ الشی: جمع کرنا۔

رجلة: پیر میں جھٹھرا لینا۔ القبيلة: قبیلہ کے ایک گوشہ کو اختیار کرنا۔ فناء: و جہہ: آبرو بچانا اور سوال کرنے سے رکنا۔

..... عَنِ الْأَمْرِ: باز رہنا۔ عَنِ الْأَمْرِ: باز رکھنا (..... كَفُوفًا) الناقه: بوڑھی ہونے کی وجہ سے چھوٹے دانت والی ہونا۔

كَفَّ وَكُفَّ: بصرہ۔ اندھا ہونا۔

تَكْفَفُ النَّاسُ: لوگوں سے مانگنے کے لئے ہاتھ پھیلانا۔ الرجل: ہاتھ میں لینا یا مٹھی بھر کر کھانا مانگنا۔ یا بھوک روکنے کے لائق مانگنا عَنِ الْأَمْرِ: چھوڑنا۔ ذمعة: آنسو کا رکنا۔

تَكَافَى عَنِ الْأَمْرِ: باز رہنا۔ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو روکنا۔

انكف: باز رہنا۔ عَنِ الْمَكَانِ: چھوڑنا۔

استكف الشی: ہاتھ میں لینا۔ الناس: مانگنے کے لئے ہاتھ پھیلانا۔ عَنِ الشی: رکنے کے لئے کہنا۔ الناس حوثة: دیکھنے کے لئے احاطہ کرنا۔ استكفيت الحیة: کڈلی مارنا۔ السناظر: دھوپ سے بچنے والے کی طرح بھڑوں پر ہاتھ رکھنا۔

عینہ: دیکھنے کے لئے آنکھ پر ہاتھ کا سایہ کرنا۔ استكفت عینہ: ہاتھ کے نیچے سے دیکھنا۔ فلان بالصّدقة: صدقہ مانگنے کے لئے ہاتھ پھیلانا۔ بہ الناس: احاطہ کرنا۔

الشعر: بال بکثرت ہونا۔ الشی: گول ہونا۔

الکف: مٹھی۔ ہاتھ یا ہتھیلی مع انگلیوں کے (مؤنث) ج انكف و كُفُوفٌ وَكُفٌّ.

كَفُّ السَّبْعِ وَكَفُّ الْكَلْبِ وَكَفُّ الذَّنْبِ وَكَفُّ مَرِيَمَ وَكَفُّ آدَمَ وَكَفُّ الْأَسَدِ وَكَفُّ السَّبْعِ وَكَفُّ السَّقْرَدِ وَكَفُّ الْأَجْذَمِ وَكَفُّ الْجَدْمَاءِ وَكَفُّ عَابِثَةَ: گھاس کی قسمیں۔ الكف: نعمت۔ عند العروضية: ساتویں حرف ساکن کا ساقط

کرنے کے بعد دوبارہ سینا (..... کففا)

الإناء: برتن کو بہت بھرنا۔ الشی: جمع کرنا۔

رجلة: پیر میں جھٹھرا لینا۔ القبيلة: قبیلہ کے ایک گوشہ کو اختیار کرنا۔ فناء: و جہہ: آبرو بچانا اور سوال کرنے سے رکنا۔

..... عَنِ الْأَمْرِ: باز رہنا۔ عَنِ الْأَمْرِ: باز رکھنا (..... كَفُوفًا) الناقه: بوڑھی ہونے کی وجہ سے چھوٹے دانت والی ہونا۔

كَفَّ وَكُفَّ: بصرہ۔ اندھا ہونا۔

تَكْفَفُ النَّاسُ: لوگوں سے مانگنے کے لئے ہاتھ پھیلانا۔ الرجل: ہاتھ میں لینا یا مٹھی بھر کر کھانا مانگنا۔ یا بھوک روکنے کے لائق مانگنا عَنِ الْأَمْرِ: چھوڑنا۔ ذمعة: آنسو کا رکنا۔

تَكَافَى عَنِ الْأَمْرِ: باز رہنا۔ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو روکنا۔

انكف: باز رہنا۔ عَنِ الْمَكَانِ: چھوڑنا۔

استكف الشی: ہاتھ میں لینا۔ الناس: مانگنے کے لئے ہاتھ پھیلانا۔ عَنِ الشی: رکنے کے لئے کہنا۔ الناس حوثة: دیکھنے کے لئے احاطہ کرنا۔ استكفيت الحیة: کڈلی مارنا۔ السناظر: دھوپ سے بچنے والے کی طرح بھڑوں پر ہاتھ رکھنا۔

عینہ: دیکھنے کے لئے آنکھ پر ہاتھ کا سایہ کرنا۔ استكفت عینہ: ہاتھ کے نیچے سے دیکھنا۔ فلان بالصّدقة: صدقہ مانگنے کے لئے ہاتھ پھیلانا۔ بہ الناس: احاطہ کرنا۔

الشعر: بال بکثرت ہونا۔ الشی: گول ہونا۔

الکف: مٹھی۔ ہاتھ یا ہتھیلی مع انگلیوں کے (مؤنث) ج انكف و كُفُوفٌ وَكُفٌّ.

كَفُّ السَّبْعِ وَكَفُّ الْكَلْبِ وَكَفُّ الذَّنْبِ وَكَفُّ مَرِيَمَ وَكَفُّ آدَمَ وَكَفُّ الْأَسَدِ وَكَفُّ السَّبْعِ وَكَفُّ السَّقْرَدِ وَكَفُّ الْأَجْذَمِ وَكَفُّ الْجَدْمَاءِ وَكَفُّ عَابِثَةَ: گھاس کی قسمیں۔ الكف: نعمت۔ عند العروضية: ساتویں حرف ساکن کا ساقط

کردینا جیسے فاعلاثن: کانون۔

الكففة: کف کا اسم۔ كفة المیزان: ترازو کا پلڑا۔ کہا جاتا ہے "زائنه كففة"

كففة: من برفته و كففة بكففة و كففة عن كففة: یعنی میں نے اس کو در در رو دیکھا۔

الكففة: ہر گول چیز۔ گڑھا جس میں پانی جمع ہو۔ من المیزان: ترازو کا پلڑا۔ من الذب: ذھول کا ڈھانچہ۔ كففة الصابند: شکاری کا جال۔ ج كفف و كساف۔

الكففة الجنوبية والكففة الشمالية: دو ستاروں کے نام اور کہا جاتا ہے "السذهب بالسذهب" یعنی برابر برابر جتنے فی كففة اللیل: میں رات کی ابتدا میں اس کے پاس آیا۔

الكففة: چیز کا کنارہ۔ حاشیہ۔ گوٹ۔ الكففة من الشجر: درختوں کی انتہا۔ من الناس: لوگوں کی جماعت۔ نزدیک جگہ والے۔

من الغیم: بادل کا کنارہ۔ من اللیل: دن رات ملنے کی جگہ یا مشرق میں یا مغرب میں۔ ومن السدع: زرہ کا دامن۔

الزمل: ریت کا ٹیلہ جو لہا اور گول ہو۔ من السوب: کپڑے کے اوپر کی دھاری جس میں چھوڑ ہو۔ من البقة: سوڑھے کا لڑکا ہو احصہ۔ كففة القمیص: دامن کے ارد گرد کی گوٹ۔ ج كفف و كساف۔

الكفف: سوال کے لئے ہاتھ پھیلانا۔ من السدع: گزارہ کے لائق روزی۔ فی الوشم: گوندنے کے حلقے۔

الكفف فی الوشم: گوندنے کے حلقے۔

گڑھے جس میں چشمے ہوں۔

الكفاف من الرزق: گزارہ کے لائق اور لوگوں سے مستغنی کرنے والی روزی کہا جاتا ہے "قوته كففاف حاشیہ" یعنی اس کا گزارہ بغیر کمی زیادتی کے اس کی حاجت کے مطابق ہے "و فلان لحمة كففاف لا ذیبه" یعنی فلاں کے بدن کے گوشت سے اس کا چمرا بھرا ہوا ہے۔ كففاف الشی: چیز

کرنے کے بعد دوبارہ سینا (..... کففا)

الإناء: برتن کو بہت بھرنا۔ الشی: جمع کرنا۔

رجلة: پیر میں جھٹھرا لینا۔ القبيلة: قبیلہ کے ایک گوشہ کو اختیار کرنا۔ فناء: و جہہ: آبرو بچانا اور سوال کرنے سے رکنا۔

..... عَنِ الْأَمْرِ: باز رہنا۔ عَنِ الْأَمْرِ: باز رکھنا (..... كَفُوفًا) الناقه: بوڑھی ہونے کی وجہ سے چھوٹے دانت والی ہونا۔

كَفَّ وَكُفَّ: بصرہ۔ اندھا ہونا۔

تَكْفَفُ النَّاسُ: لوگوں سے مانگنے کے لئے ہاتھ پھیلانا۔ الرجل: ہاتھ میں لینا یا مٹھی بھر کر کھانا مانگنا۔ یا بھوک روکنے کے لائق مانگنا عَنِ الْأَمْرِ: چھوڑنا۔ ذمعة: آنسو کا رکنا۔

تَكَافَى عَنِ الْأَمْرِ: باز رہنا۔ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو روکنا۔

انكف: باز رہنا۔ عَنِ الْمَكَانِ: چھوڑنا۔

استكف الشی: ہاتھ میں لینا۔ الناس: مانگنے کے لئے ہاتھ پھیلانا۔ عَنِ الشی: رکنے کے لئے کہنا۔ الناس حوثة: دیکھنے کے لئے احاطہ کرنا۔ استكفيت الحیة: کڈلی مارنا۔ السناظر: دھوپ سے بچنے والے کی طرح بھڑوں پر ہاتھ رکھنا۔

عینہ: دیکھنے کے لئے آنکھ پر ہاتھ کا سایہ کرنا۔ استكفت عینہ: ہاتھ کے نیچے سے دیکھنا۔ فلان بالصّدقة: صدقہ مانگنے کے لئے ہاتھ پھیلانا۔ بہ الناس: احاطہ کرنا۔

الشعر: بال بکثرت ہونا۔ الشی: گول ہونا۔

الکف: مٹھی۔ ہاتھ یا ہتھیلی مع انگلیوں کے (مؤنث) ج انكف و كُفُوفٌ وَكُفٌّ.

كَفُّ السَّبْعِ وَكَفُّ الْكَلْبِ وَكَفُّ الذَّنْبِ وَكَفُّ مَرِيَمَ وَكَفُّ آدَمَ وَكَفُّ الْأَسَدِ وَكَفُّ السَّبْعِ وَكَفُّ السَّقْرَدِ وَكَفُّ الْأَجْذَمِ وَكَفُّ الْجَدْمَاءِ وَكَفُّ عَابِثَةَ: گھاس کی قسمیں۔ الكف: نعمت۔ عند العروضية: ساتویں حرف ساکن کا ساقط

کے مانند کہا جاتا ہے "وعسنى كُفَّافٌ" یعنی تو مجھے چھوڑ دے میں تجھ کو چھوڑ دوں گا" وَطَارَ الْبُرْقِيُّ فِى كُفَّافِ السَّحَابِ یعنی بادل کے کناروں میں بجلی کو ندی "وَجِئْتَهُ فِى كُفَّافِ اللَّيْلِ" میں اس کے پاس رات کے ابتدائی حصہ میں آیا۔

الْكُفَّافُ مِنَ الشَّيْءِ الْغَيْرِ..... مِنَ الثَّوْبِ: کپڑے کی گوٹ۔ كُفَّافٌ السَّيْفِ: تلوار کی دھار كُفَّافٌ السَّحَابِ: بادل کا کنارہ۔ بادل کا بچلا حصہ۔ ہر وہ جو کسی چیز کے ملنے کی جگہ ہوتی ہے۔ وہ کُفَّافٌ ہے مثلاً كُفَّافُ الْأَذُنِ: جِ الْكُفَّةِ.

الكفّاف: فـا: ج كُفَّافَةٌ. وَنَاقَةٌ كُفَّافٌ: بوڑھی ہونے کی وجہ سے گھسے ہوئے دانت والی اونٹنی۔ زَجَلٌ كُفَّافٌ: اپنے نفس کو روکنے والا مرد۔

الكفّاف: كاف كَامُونٌ۔ جماعت۔ کہا جاتا ہے "جاء الناس كُفَّافَةً" یعنی سب آئے۔ (اس پر الف لام داخل نہیں ہوتا اور اس کی اضافت نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ حالت کی بنا پر منسوب رہتا ہے) الكفّاف: بوڑھی اونٹنی۔

الكُفُوفُ مِنَ النُّوقِ: بوڑھی ہونے کی وجہ سے گھسے ہوئے دانت والی اونٹنی۔ المُكفّاف: ایک دوسرے کو روکنا۔

المكفّفون ج مكفّيف والكفّيف: اندھا۔ المُستكفّف: گول۔

المُسْتَكفِّفَاتُ: جھٹے۔ اکٹھے اونٹ۔

كُفَّافٌ (ف) كُفَّافٌ: پھرنا۔ ٹکست کھانا..... عن القصيد: میانہ روی سے تجاویز کرنا۔ الزجل: کسی کو دھتکارنا..... وَكُفَّافٌ وَكُفَّافَةٌ: الإناة: برتن کو اُلٹ دینا۔ اوندھا کر دینا۔

كُفَّافًا الزجلُ عَلِيٌّ مَا كَانَ مِنْهُ: بدلا دینا..... فَلَانًا: انتظار کرنا۔ مقابلہ کرنا۔ نظیر ہونا۔ برابری کرنا۔ مدافعت کرنا۔ بئسن الغزسین بؤمضجہ: ایک کے بعد دوسرے کو نیزہ مارنا۔

اَكْفَفًا: جھکنا..... الإناة: برتن کو اُلٹ دینا۔ جھکا دینا۔ اَكْفَفَاتِ الْإِبِلِ: اونٹ کا بہت بچے دینا۔ اَكْفَفَا النَّيْتُ: گھر پر پردہ لگانا..... الشاعِرُ: بیت کے آخر کو روی کے بدلنے سے یا کسی اور طریقہ سے خراب کر دینا۔ تَكْفَفَا فِى مِشِيَتِهِ: لڑکھانا۔

اِكْتَفَفَا الْإِنَاءُ: برتن کو جھکانا..... پلٹ دینا۔ الْإِبِلُ: اونٹوں کو بوٹ ڈال کر لے بھاگنا۔ تَكْفَفَا الْقَوْمُ: ایک دوسرے کے برابر ہونا۔ اِنْكُفَّافَا الْقَوْمُ: متفرق ہونا واپس ہونا۔ تَكَلَّتْ كَهَانًا..... الْبَنِي كَهْدًا: جھکنا..... اللَّيْنُ: متغیر ہونا رنگ بدلنا۔

اِسْتَكْفَفَا فَلَانًا اِبِلَةً: ایک سال کی اونٹوں کی پیدائش۔ کسی سے مانگنا۔ کہا جاتا ہے: "اِسْتَكْفَفَاتُهُ اِبِلَةً فَامْكفّافِيهَا" یعنی میں نے اس سے اس کے اونٹ کی ایک سال کی پیدائش کو مانگا تو اس نے مجھے دودھ اونٹ بچے سب دے دیئے "اِسْتَكْفَفَاتُ فَلَانًا" برتن کی چیز کو اپنے برتن میں اٹھیلنے کو میں نے کہا۔

الكفّاء والكفّاءة: برابری۔ مساوات۔

الكفّاء: مصدر كُفَّافًا: کہا جاتا ہے "الْحَمْدُ لِلّٰهِ كِفَّاءَ الْوَأَجِبِ" جتنی حمد واجب ہے اس کے برابر اللہ کے لئے حمد ثابت ہے "وهذا كِفَّاءُهُ" یہ اس کے مثل ہے "وَلَا كِفَّاءَ لَهُ" اس کی کوئی نظیر نہیں۔ كِفَّاءَ النَّيْتُ: خیمہ کے اوپر سے نیچے تک کا پردہ جو آخر میں لگایا جاتا ہے۔ ج كُفَّافَةٌ.

الكفّ والكفّف والكفّف: مثل نظیر۔ ج كُفَّافٌ وَكِفَّافٌ.

الكُفُوفُ وَالكُفُوفُ وَالكُفُوفُ وَالكُفُوفُ: مماثل۔

الكفّاءة والكفّاءة من النخل: درخت خرما کی ایک سال کی پیدوار..... فِى الْإِبِلِ: ایک سال کی پیدائش یا ایک سال یا اس سے زائد کے ناند کے بعد کی سالانہ پیدائش..... فِى الْأَرْضِ: سال بھر کی کھیتی تم کہتے ہو

..... "مَنْحَتُهُ كُفَّافَةٌ غَنِيْمٌ" جبکہ تم ایک سال کے لئے دودھ صوف بچے سب دے دو اور اختتام سال پر بکریوں کو وہ تمہیں واپس کر دے۔

الكفّيف: مماثل۔ بطن وادی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ كُفَّافِي اللَّوْنِ" یعنی اس کا رنگ بدلا ہوا ہے۔

كِفَّاءُ الْوَادِي: اندرون وادی۔

الإكفّاء: مصدر اَكْفَفًا..... عِنْدَ الشَّعْرَاءِ: حرف روی کو بدل کر لانا۔ مثلاً کہیں میم کہیں وال کہیں نون اور یہ ممنوع ہے۔ کہا جاتا ہے "رَأَيْتُهُ مَكْشَفِي اللَّوْنِ وَمَكْشَفَا اللَّوْنِ" میں نے اس کو متغیر اللون پایا۔

كُفَّافَةٌ (ض) كُفَّافَةٌ: پھیر دینا..... هُ الْلَهُ: وفات دینا۔ کہا جاتا ہے "السُّلُومُ اِكْفِيفُهُ اِبْنُكَ" اے اللہ اس کو وفات دے۔ كُفَّافَتِ الشَّيْءِ: الٹ جانا..... وَكُفَّافَتِ الشَّيْءِ اِلَى نَفْسِهِ: اپنے ساتھ ملانا..... الشَّيْءِ: قبض کرنا..... فَلَانٌ ذَيْلُهُ: دامن سینا۔

كُفَّافَتِ (ض) كُفَّافًا وَكُفَّافًا وَكُفَّافًا وَكُفَّافًا تَكُفَّافَتِ الطَّائِرُ وَغَيْرُهُ: پرندہ کا تیز اڑنا یا دوڑنا اور مثلاً..... تَكُفَّافَتِ فِى مَسِيرِهِ: دوڑنا۔ تَكُفَّافَتِ الثَّوْبُ: کپڑے کا سٹک۔

كُفَّافَتِ مُكْافَفَتُهُ وَكُفَّافَتِ الرَّجُلُ: دوڑنے میں سبقت کرنا..... الرَّجُلُ: اچانک مرنا۔ اِنْكُفَّافَتِ: پھرنا۔ سکرنا..... الْفَرَسُ: گھوڑے کا لاغر ہونا۔

اِنْكُفَّافَتِ الْمَالُ: سب لے لینا۔

اِنْكُفَّافَتِ: ممت۔ موت۔ الٹ پلٹ ہونا۔ کہا جاتا ہے "مُخْبِرٌ كُفَّافَتٌ" بے سالن کی روٹی۔ "زَجَلٌ كُفَّافٌ" دبلا پتلا پکا پھلکا مرد..... وَالكفّف: چھوٹی ہانڈی۔

الكُفَّافَةُ وَالكُفَّافَةُ مِنَ التَّخِيلِ: بہت اچھلنے کودنے والا گھوڑا جو سوار نہ ہونے دے۔

الكفّفات: ممت۔ چیز جمع کرنے کی جگہ۔ جمع کی ہوئی چیز۔

الکفیف: مہلک۔ تو شر دان..... مہلک
الرجال: ہلکا چمکا تیز مرد۔ وہ شخص جو تم سے
آگے بڑھ جائے عدو کفیف: تیز دوڑ۔ کہا
جاتا ہے مات کفانا و مکافئة: اچانک مر
گیا۔

الکفأت: اسم مبالغہ۔ شیر۔
المکفٹ: دوزرہوں کا پسینے والا جن کے
درمیان میں کپڑا ہو۔

کفح (ف) کفحاً العذو: دشمن کے رودر
رو ہونا۔ آنے سے ہونا..... بالعصا:
الہی سے مارنا..... لجم الذابۃ: چوپایہ کو
ٹھہرانے کے لئے لگام کھینچنا..... الشی: سر
پوش اتارنا۔ المرأة: عورت کا اچانک بوسہ
لینا۔

کفح (س) کفحاً عنہ: شرمندہ ہونا۔
بزول ہونا۔

کفح القوم اغداءہم: بغیر ڈھال وغیرہ
کے دشمن کے مقابلہ پر آنا۔ کہا جاتا ہے "ھو
یُکفح الامور" وہ امور کو خود انجام دیتا
ہے۔ کفح عنہ: مدافعت کرنا۔ کفح
المرأة: عورت کا اچانک بوسہ لینا۔

اکفح الذابۃ: چوپایہ کو ٹھہرانے کے لئے
لگام کھینچنا..... فلانا عن نفسه: ہٹانا۔ دفع
کرنا۔

تکفح القوم: آنے سے سامنے مقابلہ کرنا۔
تکفحت الامواج: موجوں کا ٹکرنا.....
الکباش: مینڈھوں کا ایک دوسرے کو سینگ
مارنا۔

الکفاح: مہلک کہا جاتا ہے "لقیئہ کفاحا"
میں نے اس سے آنے سے سامنے ملاقات کی۔
الکفیح: نظیر۔ کفو۔ شوہر۔ اچانک آنے
والا مہمان۔

الاکفح: کالا۔
الکفحۃ: چھوٹی سی جماعت۔

کفحۃ (ف) کفحاً: طمانچہ مارنا.....
بالعصا: الہی سے مارنا۔
الکفحۃ: جمع شدہ سفید کھن۔

رَجُلٌ مِکْفَحٌ وَعَمُودٌ مِکْفَحٌ: مضبوط۔
کفرو (ن) کفراً و کفراً: الشی: چھپایا۔
کہا جاتا ہے "کفرو دوعہ بئویہ" اس نے
اپنی زرہ کو اپنے کپڑے سے چھپایا.....
اللیل الشی و علی الشی: ڈھانکنا.....

الجهل علی علم فلان: علم پر جہل کا غالب
آنا..... کفراً و کفراً و کفراً (انما)
ایمان کی ضد..... بالخالق: الہی کرنا.....
کفراً و کفراً و کفراً (انما) نعم اللہ و ینعم
اللہ: ناشکری کرنا..... بگذا: بیزار ہونا۔

کفرو الشی: چھپانا..... الرجل: کفر پر
برا بھینٹ کرنا۔ کفر کی طرف نسبت کرنا۔ کافر
کہنا۔ کفرو لہ: تعظیماً کسی کے سامنے سینہ پر
ہاتھ رکھنا اور سر جھکانا..... اللہ لہ الذنب:
معاف کرنا۔ گناہ مٹانا..... عن یسبہ او
ایبہ: کفارہ ادا کرنا۔

کفرو للملک: تاج پہنایا جاتا کہ جس کے
دیکھنے سے تعظیم لازم ہو۔
کافر مکافرة فلانا حقہ: انکار کرنا۔

اکفرو: طاعت اور ایمان کے بعد گناہ اور کفر
اختیار کرنا..... الرجل: کافر کہنا۔ کفر کی
طرف منسوب کرنا۔ کافر بنانا۔ کفر کرنے پر
مجبور کرنا۔

اکفرو الرجل: دیہات میں رہنا۔
اکفرو: دیہات میں رہنا۔

الکفرو: مہلک دور کی زمین۔ قبر۔ چھوٹی
الہی۔ مٹی الکفرو: دیہات۔ ج کفورو
(.....) والکفرو والکفروۃ رات کی تاریکی۔

الکفرو والکفروان: ضد ایمان۔ الکفروان:
ناشکری۔ الکفرو: فارسیوں کا اپنے بادشاہ
کی تعظیم کرنا۔

الکفرو والکفروئی والکفروئی والکفروئی:
کھجور کے شگوفے کا غلاف۔ الکفرو: پہاڑ
کی گھائیاں واحد کفروۃ۔

الکفرو من الجبال: بڑا پہاڑ۔
الکافر: نا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار
کرنے والا۔ ج کفیرون کفروۃ و کفار

وکفسار (کنفار اس کافر کی جمع میں اکثر
استعمال ہوتا ہے جو ضد مؤمن ہے اور کفروۃ:
کا استعمال اس کافر کی جمع میں ہے جو بمعنی
ناشکر گزار ہے۔ الکفافر: تاریک رات۔

سندر۔ بڑی وادی۔ کالا بادل۔ تاریکی۔
کھجور کے شگوفے کا غلاف۔ بڑا دریا۔ زرہ۔
وہ شخص جس نے زرہ کو اپنے کپڑوں سے
چھپا رکھا ہو۔ دور کی زمین۔ ہموار زمین۔
نباتا۔ کاشکار۔ ہتھیار بند۔ چھپا ہوا مہم
الکافر من الخیل: کالا گھوڑا۔

الکافرة: کافر کا مؤنث۔ ج کافرات
وکوافرو۔ الکوافرو: شراب کے مٹکے۔
الکفورو: کافر۔ ج کفرو (اس کی جمع سالم
نہیں آتی)

الکافرو: ایک خوشبودار گھاس۔ کافرو۔ کھجور
کا شگوفہ۔ کھجور کے شگوفے کا غلاف۔
خوش۔ انور نکلنے کی جگہ۔ ج کسوافیسر
وکوافرو۔

الکفار: اسم مبالغہ۔ رَجُلٌ کَفَّارٌ: اللہ کی
نعمتوں کا انکار کرنے والا۔

الکفارة: کفار کا مؤنث۔ گناہ کا کفارہ۔
صدقہ یا روزہ جو کفارہ میں ادا کیا جائے۔
المکفرو والمکفرو: ہتھیار بند۔ ہتھیار میں
چھپا ہوا۔

المکفرو: مہلک۔ وہ احسان کرنے والا جس کی
ناشکری کی گئی ہو۔ لوہے میں بندھا ہوا۔
طائر مکفرو: پروں میں چھپا ہوا پرندہ۔

کفوس (س) کفوسا الصبی: میزھے پاؤں
والا ہونا۔ صفت اکفوس: مؤنث کفوساء:
ج کفوس۔

کفست واکفست رجلہ: پاؤں کا میڑھا
ہونا۔ انکفست الرجل: مرد کا دوہرا ہونا۔

الکفاس: بچے کے بدن پر باندھنے کا کپڑا۔
بدن سے ملے ہوئے کپڑے سے اوپر کا
کپڑا۔ کفکفہ عن کذا: پھیرنا۔ باز
رکھنا۔ منع کرنا۔ کفکف الدمع: آنسو بار
بار پونچھنا..... الرجل: قرض دار سے نرمی

برتا یا قرض دار سے تکلیف پہنچانے والے کو دور کرنا۔

تَكْفُفٌ: غنۃً بازرہنا۔ پھر جانا۔

كُفْلٌ (ن) كُفْلًا وَكُفْلًا فَالْتَا: نان و نقتہ کا ذمہ دار ہونا..... فَسَى صِيَامِهِ: لگا تار روزے رکھنا..... الشَّيْءِ إِلَيْهِ: ملنا۔

كُفْلٌ (ن س) وَ كُفْلٌ (س) وَ كُفْلٌ (ك) كُفْلًا وَ كُفْلًا: زَجْلٌ وَ بِالزُّجْلِ وَ النَّالِ وَ النَّالِ: ضامن ہونا۔ کہا جاتا ہے "كُفْلٌ عَنْهُ بِالنَّالِ لِغَرِيمِهِ" اس نے قرض خواہ کے لئے مال کی ذمہ داری کی۔

كُفْلَةٌ: نان و نقتہ وغیرہ کا ذمہ دار ہونا۔

كُفْلُهُ وَ كُفْلُهُ: ضامن بنانا۔ كُفْلٌ الْقَاضِي الضَّمِّ: ضامن لینا۔ كُفْلٌ رُبَّدٌ عَمْرًا: مال کا ضامن ہونا۔

كُفْلَةٌ مَكْفَلَةٌ: معاہدہ کرنا۔

تَكْفُلٌ لَدَى بَكْذَا: ضامن ہونا۔ کہا جاتا ہے "تَكْفُلُ النَّالِ" یعنی اپنے ذمہ کر لیا۔

وَ اِكْفَلَ التَّعِيْرَ: اونٹ کے کوہان پر گول زین رکھ کر سوار کرنا۔ اِكْفَلَ بِلَانٍ: اپنے پیچھے سوار کرانا..... بِالشَّيْءِ: پیچھے کرنا۔ کہا جاتا ہے اِكْفَلَ بِالزُّجْلِ: یعنی پہاڑ سے گزر گئے اور اس کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا۔

تَكَاْفَلُ الْقَوْمُ: بعض بعض کا ضامن ہونا۔

الْكُفْلُ: دو چند ثواب یا گناہ پیچھے سوار ہونے والا۔ حصہ۔ نظیر۔ ضمانت۔ بیل کی گردن پر بلی کی لکڑی کے نیچے کا چیتھرا۔ اون جو پہلے اون کے گرنے کے بعد نکلے وہ شخص جو گھوڑے پر بیٹھ نہ سکے وہ شخص جو میدان جنگ میں آخر میں رہے اور بھاگنے میں مستعد رہے وہ شخص جو اپنے جان و مال کو دوسرے کے ذمہ ڈال دے چیتھرے وغیرہ سے ایک گول سی چیز بناتے ہیں اور اس کو اونٹ کے کوہان پر رکھتے ہیں تاکہ بیٹھنے میں آسانی رہے وہ چیز جو سوار کی اس کے پیچھے سے حفاظت کرے۔ ج اِكْفَالٌ.

الْكُفْلُ مِنَ الذَّابَّةِ: چوپایہ کا چوڑا یا سرین کا

پچھلا حصہ۔ ج اِكْفَالٌ.

الْكُفَالُ: فإ۔ ضامن۔ تیمم کا متولی۔ پے در پے روزے رکھنے والا۔ کہا جاتا ہے "نَسَاتُ فُلَانٌ كُفَالًا" فلاں نے اس حالت میں رات گزار لی کہ نہ تو دن کو کھانا کھایا اور نہ رات میں۔ ج اِكْفَالٌ.

الْكُفَالَةُ: ضمانت (اسم ہے كُفْلَةٌ: سے) ج كُفَالَاتٌ.

الْكُفَيْلُ: ضامن۔ ہم مثل۔ کہا جاتا ہے زَجْلٌ كُفَيْلٌ وَ اِمْرَاةٌ كُفَيْلَةٌ وَ قَوْمٌ كُفَيْلٌ ج كُفَيْلَاءٌ.

الْكُفُولَةُ: اسم ہے كُفْلٌ کا اور كُفْلٌ اس شخص کو کہتے ہیں جو گھوڑے پر نہ بیٹھ سکے۔

كُفْنٌ (ض) كُفْنَا الْجَمْرَ بِالرَّمَادِ: چنگاری کورا کھ میں باد دینا..... الصُّوْفُ: اون کا تا..... السُّخْرَةَ فِي الْمِلَّةِ: بھوبھل میں روٹی چھپانا۔ (..... وَ كُفْنٌ) الْمَيْتِ: کفن دینا۔ تَكْفُنٌ بَكْذَا: چھپانا۔

الْكُفْنُ: ممس۔ اور کہا جاتا ہے "طَعَامٌ كُفْنٌ" بے نمک کھانا۔

الْكُفْنُ: کفن۔ ج اِكْفَانٌ.

الْكُفْنَةُ: عمدہ زمین جو ہر چیز کو آگائے۔ کہا جاتا ہے "قَوْمٌ مَكْفُونُونَ" یعنی ایسے لوگ جن کے پاس نمک نہ ہو۔

الْكَاْفَةُ: فوج کا سردار۔

اِكْفَهْرًا: اِكْفَهْرًا الْاَلَيْلِ: رات کا سخت تاریک ہونا..... السَّحَابُ: بادل گھٹائوپ ہونا..... الزُّجْلُ: تیوری چڑھانا..... النَّحْمُ: ستارہ کا سخت تاریکی میں چمکنا۔

السُّكْفَهْرُ: فإ۔ ہر تہ بہہ چیز۔ سخت اور بلند پہاڑ۔ کم گوشت۔ سخت اور بے حیا چہرہ۔ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ مَكْفَهْرٌ الْوَدُنُ" یعنی فلاں کا رنگ نیتری کی طرف مائل ہے "وَ فُلَانٌ مَكْفَهْرٌ" یعنی فلاں مقبض و ترش رو ہے۔

خوشی کے آثار اس کے اندر نہیں۔

الْكُفُو وَالْكُفْفُ: مِسٌّ اُور نظیر۔

كُفْسِي يَكْفِي كِفَايَةَ الشَّيْءِ: کافی ہونا۔ صفت كُفَابٌ. كُفْسِي الشَّيْءِ فُلَاتًا: قناعت کرنا اور دوسرے سے مستغنی ہونا۔ وَ كُفْسِي فُلَانًا مَسُوْدًا: کارگزاری کر دینا اور کارگزاری سے مستغنی کر دینا۔ کہا جاتا ہے "كُفْسِيهِ سَرَّ عَدُوَّهُ" یعنی اس کو دشمن کے شر سے بچا دیا اور کُفْسِي کے فاعل پر باکی زیادتی ہوتی ہے۔ جیسے "كُفْسِي بِاللّٰهِ شَيْئًا" یعنی اللہ تعالیٰ کی شہادت غیر سے مستغنی کر دیتی ہے۔ لفظ اللہ تکلماً مرنوع ہے اور شہیداً تمہیز ہے۔

كُفْسِي كِفَاءً وَ مَكَاْفَاةً الزُّجْلِ: بدلہ دینا۔ کافی ہونا۔ تَكْفِيَةُ النَّبَاتِ: نباتات کا طویل ہونا۔ اِكْفِي بِكَذَا: قناعت کرنا۔ مستغنی کرنا۔ اِسْتَكْفِيَ الزُّجْلُ الشَّيْءَ: کافی چیز مانگنا۔ تم کہتے ہو "اِسْتَكْفِيَةُ الْاَمْرِ فَكُفَابِيهِ" میں نے اس سے کافی چیز کی درخواست کی اس نے مجھے کافی دی۔

الْكِفَايَةُ: ممس۔ جو کافی ہو اور غیر سے مستغنی کر دے۔

الْكُفْيُ وَ الْكُفْيُ وَ الْكُفْيُ: جس سے کفایت ہو۔ کہا جاتا ہے "زَجْلٌ كُفْيِكْ مِنْ زَجْلٍ" یہ مرد اس مرد سے تمہارے لئے کافی ہے اس میں مفرد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب برابر ہیں۔ الْكُفْيُ: اندرون وادی۔ ج اِكْفَاءٌ.

الْكُفْيَةُ: گزارہ۔ جو تمہاری زندگی گزارنے کے لائق ہو۔ ج كُفْيٌ.

الْكُفْيُ وَ الْكَاْفِي: جو تمہارے لئے کافی ہو اور تم کو غیر سے مستغنی کر دے۔ کہا جاتا ہے "هَذَا زَجْلٌ كُفَاْيِكْ مِنْ زَجْلِ وَ زَجْلَانٌ كُفَاْيَاكْ مِنْ زَجْلَيْنِ وَ رَجَالٌ كُفَاْيَاكْ مِنْ رَجَالٍ" یہ مرد تمہارے لئے فلاں مرد سے کافی ہے اور اسی قیاس پر تثنیہ اور جمع۔

مخفی الزجل: مرد کا قائم مقام۔ الجفی: بارش۔

الکاکاو: وسطی امریکہ کا ایک درخت جس کے پتے چوڑے پھول چھوڑے پھل بڑے اس کے بیج سے کا (نکالا) جاتا ہے۔

المکافات: مصل۔ احسان کا احسان سے یا اس سے زیادہ سے مقابلہ اور کہا جاتا ہے "زجوت مکافاتک" میں نے تمہارے کافی ہونے کی امید کی۔

کُلُّ (ض) کَلًّا وَ کَلَّةً وَ کَلَالًا وَ کُلُولًا وَ کَلَالَةً وَ کُلُولَةٌ: تھکن۔ صفت کمال: بے والد اور بے اولاد ہونا..... السیف وغیرہ: تلوار وغیرہ کا کند ہونا۔ صفت کُلِّ وَ کَلِيلِ اللسان او البصر: زبان یا نگاہ کا اچھی طرح سے کام نہ دینا۔

کُلِّل السیف: تلوار کا کند ہونا..... غن الأضر: بزدل ہو کر کرنا..... فی الأضر: کوشش کرنا..... الزجل: اپنے اہل و عیال کو ضائع کرنے کے لئے چھوڑ دینا..... الشبع: درندہ کا حملہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "کُلِّل تکلیلة الشبع" یعنی اس نے درندہ جیسا حملہ کیا..... علیہ بالسیف: تلوار سے حملہ کرنا..... تاج پہنانا..... بالحجازة: پتھر او کرنا..... السحاب السماء: بادل چاروں طرف سے گھراتا۔

اکل البکاء بصرہ: نگاہ کا دم کر دینا..... البعیر: اونٹ کو تھکا دینا..... الزجل: تھکے ہوئے اونٹ والا ہونا۔

تکلیل: تاج پہنانا..... الشی بہ: احاطہ کرنا۔ تکلیلہ: لوگوں نے اس کا احاطہ کر لیا..... واتخذ السحاب عن البرق: آہستہ آہستہ چمکتا واتخذ الغمام بالبرق: بادل میں بجلی چمکانا۔ کوندنا۔

انکل السیف: تلوار کا کند ہونا..... البرق: بجلی کا آہستہ آہستہ چمکانا..... الزجل: مسکرانا..... السحاب عن البرق: آہستہ آہستہ چمکانا۔

الکُلُّ: مصل کمزور۔ وہ شخص جس کے والد اور اولاد نہ ہو۔ یتیم۔ مرد گراں جان ہے خیر۔ چھری یا تلوار کی پیٹھ۔ وکیل۔ بت۔ مصیبت۔ فقیر۔ عیال بوجہ اور کُلُّ کا اطلاق واحد جمع وغیرہ سب پر ہوتا ہے اور بعض مذکورہ صفت کی جمع کُلُول: کہتے ہیں۔ کُلُّ: ایک اسم ہے جو متحدہ کے افراد کے استغراق کے لئے یا واحد کے اجزاء کے عموم کے لئے وضع کیا گیا ہے اور بغیر اضافت کے استعمال نہیں کیا جاتا عام اس سے کہ لفظ ہویا تقدیر اور مصدر یہ ظرفیہ کے داخل ہونے سے تکرار کا فائدہ دیتا ہے جیسے "کُلَّمَا آتاک زیندًا اُخرفہ" یعنی زید جب کبھی تمہارے پاس آئے تو تم اس کا اکرام کرو اور معرفہ و عمرہ کی صفت میں بھی واقع ہوتا ہے اور اس وصف کی انتہا پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے "هُوَ الْعَالِمُ کُلُّ الْعَالِمِ" وہ بڑا کامل عالم ہے اور معرفہ و عمرہ محدودہ کی تاکید میں واقع ہوتا ہے جیسے "سَجَدَ السَّمَاوَاتُ کُلُّہُمْ" اور لفظ کل کا حکم افراد اور تذکیر کا ہے اور معنی یا بتبار مضاف الیہ کے ہوں گے۔ اگر عمرہ کی طرف اضافت ہوگی تو معنی کی رعایت واجب ہوگی اور اس کے بعد ضمیر مفرد مذکر کی آئے گی جیسے "کُلُّ شَیْءٍ فَعَلُوهُ بِحُکْمِہِ" اور مفرد مؤنث کی بھی جیسے "کُلُّ نَفْسٍ ذَاتِ نَفْسٍ مَوْتٌ" اور شئی کی جیسے "و کُلُّ رَفِیْقِی کُلُّ رِجُلٍ و ان ہما" اور مجموعہ مذکر کی جیسے "و کُلُّ اُنْسَانٍ سَوَفَ تَدْخُلُ بَیْنَهُمْ" اور جمع مؤنث کی جیسے "و کُلُّ مُصِیْبَاتِ الزَّمَانِ وَ جَدَّتْہَا" اور اگر معرفہ کی طرف اضافت ہو تو لفظ کی بھی رعایت جائز ہے اور معنی کی بھی۔ جیسے کُلُّ الْقَوْمِ خَضَرَ یا کُلُّ الْقَوْمِ خَضَرُوا اور مقطوع عن الاضافہ: کی صورت میں بھی لفظ و معنی دونوں کی رعایت جائز ہے۔ جیسے کُلُّ خَضَرَ وَ کُلُّ خَضَرُوا اور کہا گیا ہے کہ جب

مضاف الیہ مقدر مفرد اور مکرہ ہو تو مفرد لانا واجب ہے اور اگر جمع معرف ہو تو جمع لانا واجب ہے اور مقطوع عن الاضافہ کی صورت میں توین مضاف الیہ کے بدلے میں ہے اور تقدیر پہلی مثال میں کُلُّ اُخِدَ ہے اور دوسری میں کُلُّہُمْ اور اگر لفظ کل نفی کے بعد واقع ہو تو نفی بعض افراد کی ہوگی۔ جیسے "مَسَا جِئَاءَ کُلِّ الْقَوْمِ" پوری قوم نہیں آئی کچھ آئے کچھ نہیں آئے اور اگر لفظ کل پہلے ہو اور نفی بعد میں ہو تو نفی سارے افراد کی ہوگی جیسے کُلُّہُمْ لَمْ یَقْوُوا یعنی کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا اور اس پر الف لام داخل نہیں ہوتا مگر اس وقت جبکہ مضاف الیہ کے عوض میں ہو یا لفظ کل ہی کا ارادہ کیا گیا ہو جیسے کُلُّ لَاحِطَةِ الْاَفْرَادِ۔

کَلًّا: ہرگز نہیں۔ حرف دع ہے۔ تنبیہ اور زجر کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

الکَلَّةُ: کُلُّ: کا اسم مرہ۔ کند چھری۔ الکَلَّةُ: تاخیر۔ دیر۔ کل کا مؤنث۔ کہا جاتا ہے کَلَّةٌ اِمْرَاةٌ: جیسے کُلُّ اِمْرَاةٍ۔

الکَلَّةُ: باریک پردہ۔ چھردانی۔ ہودج کے سرے پر سرخ اون۔ ج کسل و ککلات (.....) والککل) حالت۔ کہا جاتا ہے "تاتت بککلی سؤیہ" یعنی بری حالت میں رات گزارے۔

الکَلَالَةُ: تھکن۔ جس کے والد اور ولد نہ ہو۔ وہ شخص جس کے لئے کسی رشتہ دار نہ ہوں۔ کہتے ہیں "هُوَ اِبْنُ عَمِّ الْکَلَالَةِ و ابنُ عَمِّ کَلَالَةٍ" جبکہ قبیلہ کا تو ہو مگر مہی کسی رشتہ دار نہ ہو۔

الکُلُّی: کل کی طرف منسوب۔ العلم الکُلُّی: علم الہی۔

کُلِّیۃ الشئ: بسانہ۔ کہا جاتا ہے "اُخِذَہُ بِکُلِّیۃ" یعنی تمام لے لیا۔

الکُلِّیۃ: ہائی تعلیمی مدرسہ جس میں مختلف علوم پڑھائے جائیں جس کو کالج کہتے ہیں۔

الکُلِّیَاتِ فِیْ عَرَفِ الْمُنْطَقِیْنَ: وہ مفہوم

ہے جو بہت افراد پر صادق ہو اور اس کی پانچ قسمیں ہیں۔

(۱) جنس: وہ کھلی جس کے افراد کی حقیقتیں مختلف ہوں۔ جیسے حیوان۔

(۲) نوع: وہ کھلی جس کے افراد کی حقیقتیں متحد ہوں۔ جیسے انسان۔

(۳) فصل: وہ کھلی جو ماعدہ سے ممتاز کر دے جیسے ناطق۔

(۴) خاصہ: وہ کھلی عرضی جو ایک حقیقت کے ساتھ خاص ہو جیسے ضاحک۔

(۵) عرض عام: وہ کھلی عرضی جو ایک سے زائد حقیقت کے ساتھ ہو جیسے ماشی۔

الاکٹیل: عیسائی مرد حضرات کے سر پر شادی کا تاج۔ کہا جاتا ہے کُلُّ الْكَاهِنِ

الْعُرْوَسَيْنِ مُتَّكِلًا كَاهِنٍ: (پادری) نے شادی والوں کو تاج پہنایا پس تاج والے ہوئے۔

الاکٹیل الذائری أو الحلقۃ الذائریۃ: وہ سطح جو متحد مرکز دو دائروں کو گھیرتی ہو۔

الاکٹیل: تاج۔ جو ہرے مزین پنکا۔ ج آکٹہ و اکٹیل: ناخن کے ارد گرد کا گوشت۔ واکٹیل الملک: ناخن۔

واکٹیل الجبل: ایک قسم کی نباتات۔

الاکٹیل: تھکا ہوا۔ کہا جاتا ہے "نہضو کٹیل" کمزور گاہ "سیف کٹیل" کند

تکوار۔ ج کلال۔

کلا (ف) کلاۃ و کلاۃ و کلاۃ اللہ فلا تا: حفاظت کرنا۔ کلاۃ بالسوط: کوڑے مارنا۔ کلا یغیرہ فی الشی: بار

بارو کھینا..... النجم متعی یطلع: ستارے کے طلوع ہونے کا انتظار کرنا..... کلا

و کسلوۃ (م) الذین: ادا نہیں میں دیر ہونا۔ صفت کھالی و کھال..... عُمرة: عمر کا قسم

ہونا۔

کلا و کٹلی (س) کلا المکان: سبزہ زار ہونا..... واکتلات: الساقۃ: آدمی کا سبزی

کھانا۔

کلا تکلیباً و تکلیفۃ السیفینۃ: سختی کو کنارے سے قریب کرنا..... السرجل: باز

رکھنا..... فی الامر: غور سے دیکھنا..... الی فلان فی الامر: آگے بڑھنا..... تکلیباً

بیعانہ لینا..... تکلیفۃ: ہوا سے پناہ کی جگہ میں آنا..... فی الطعام وغیرہ: بیع سلم

کرنا۔

کلاۃ مکلایۃ و کلاۃ: انتظار کرنا۔ تکلا و استکلا: کلاۃ: بیعانہ لینا۔

استکلا المکان: سبزہ زار ہونا۔ اکتلاۃ: بیعانہ لینا۔ اکتلاۃ غینہ: بے

خوابی میں مبتلا ہونا اور نہ سونا۔ اکتلاۃ من فلان: بچنا۔

الکلاۃ: بندرگاہ۔ دریا کا کنارہ۔ الکالی و الکالی: بیعانہ۔ ادھارج کوالی و کوال۔

مکان کلسی و مکلی: بہت سبزہ زار۔ مونت کلیۃ و مکلیۃ۔

زجل کلؤۃ العین: مرد بیدار چشم جس پر نیند کا غلبہ نہ ہو۔ غین کلؤۃ: بے نیندی آگہ۔

الکلاۃ: بیعانہ۔ ادھار۔ الاکتلا: اسم تفضیل اور کہا جاتا ہے "بلغ اللہ

بک اکتلا العصر": یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری انتہائی عمر کرے۔

ارض مکلاۃ: بہت سبزہ زار زمین۔ المسکلا: بندرگاہ۔ دریا کا کنارہ۔ ہر وہ

جگہ جہاں ہوا سے پناہ لے سکیں۔

کلب (ن) کلبا القوس: گھوڑے کو ہمیز مارنا..... المزاۃ: توشردان میں قسم لگانا۔

کلب (ض) کلبا الزجل: کتوں کے بھونکنے کے لئے انہیں کی طرح آواز نکالنا۔

الکلب: کتے کا لگو ہونا۔ کلب (س) کلبنا: پیاسا ہونا..... الکلب:

دیوانہ ہونا..... الزجل: پاگل کتے کے کانٹے سے دیوانگی والا ہونا..... علی الامر:

حریص ہونا..... فی کذا: امید رکھنا..... علی الزجل: اصرار کرنا..... الزجل: بغیر

آسودگی کے بہت کھانا۔ دیوانہ کتے کا کاٹنا۔ دیوانہ کتے کے کانٹے سے بچنا۔

غضیناک کرنا۔ فرو ماگی کرنا..... الکلب:

کتے کا لگو ہونا..... القبط علی الایسر:

خشک ہونا..... الشجر: درخت کی پیرانی نہ ہونے کی وجہ سے پتوں کا خشک ہونا اور

گزرنے والے کے کپڑوں سے الجھنا..... الشتاۃ و الزمان: سخت ہونا۔

کلب کلابا الزجل: کتے کے کانٹے کی وجہ سے دیوانہ ہونا۔

کلب الکلب: کتے کو سدھانا۔ کلاب کلابا و مکالیۃ الزجل: کھلم کھلا

دشمنی کرنا اور سختی ڈالنا۔ کالبت الایبل: اونٹوں کا کانٹے دار درخت چرنا۔

اکلب القوم: پیاسے اونٹوں والا ہونا۔ تکالبت القوم: کھلم کھلا آپس میں دشمنی کرنا

..... علی کذا: ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "تکالبت الناس علی الدنیا"

یعنی لوگ دنیا کے بہت حریص ہو گئے۔ استکلب الزجل: کتوں کی طرح بھونکنا۔

..... الکلب: کتے کا لگو ہونا۔ انسان کے کھانے کا عادی ہونا۔

الکلب: ہر ایک کانٹے والا درندہ۔ کتاب کلاب. و اکلب و ج کلاب و کلابات

الکلب: بچل کے دھرے کے سرے کا لوہا۔ کجاوہ کے کنارہ کی تیخ۔ جس پر مسافر اپنے

توشرو غیرہ کو لٹکائے۔ دیوار میں ٹیک لگانے کی تھوٹی۔ ٹیلہ کا کنارہ۔ تکوار کے قبضہ کی تیخ

من القوس: گھوڑے کی پیٹھ کی دھاری۔ کہا جاتا ہے "استوی علی کلب فریبہ" وہ

اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر جم کے بیٹھ گیا اور کہا جاتا ہے "کف عنہ کلابہ" یعنی اس نے

گالی دینی اور تکلیف پہنچانی چھوڑ دی اور فلان یوادی الکلب: جبکہ گھربانہ ہو

جہاں وہ ٹھکانا لے سکے۔ الکلب: وادی کے پانی کی پہلی زیادتی۔ ہر وہ چیز جس سے کوئی چیز باندھی جائے۔ کلب النساء او

کھلبُ البحر: ایک قسم کی پھلی جو کتے سے کچھ مشابہ ہوتی ہے اور دم بلی اور کان اور ناک میں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور رنگ سرخ سیاہی مائل ہوتا ہے۔ الكلبُ و کھلبُ الجبار و الكلبُ الاخبس و الكلبُ الاضفر و کھلبُ الزابعی: ستاروں کے نام۔ کھفُ الكلب: ایک قسم کی پھلی ہوتی گھاس۔ لسانُ الكلب: ایک نباتات۔	الکلاب: کتے کے کانٹے کی وجہ سے دیوانگی۔	الکلب: کلب: کامصدر۔ کتے کی دیوانگی۔ سخت پیاس۔ ابتدائی سرما اور کہا جاتا ہے "ذقتُ عنک کھلبُ فلان" یعنی میں نے تم سے فلاں کے شر کو دور کر دیا۔	الکلب: کتیا۔ کانٹا۔ أم کلبیة: بخار۔ الکلبان: لوہا کا زنبور۔ دانت اکھاڑنے کا زنبور۔ اور اس کو کلبانیہ بھی کہتے ہیں۔	الکلبیة: سخت۔ تنگی۔ قحط۔ شدت سرما۔ بلی کتے کی تھوٹھنی کے دونوں طرف کے بال۔ شراب فروش کی دکان۔	الکلاب و الکلبوب: مہمیز۔ آگ نکالنے کے لئے مڑے ہوئے سر کی سلاح۔ آئکس ج کلابیب: کلابیب البازی: باز کے پتے۔ کلابیب الشجر: درخت کے کانٹے۔	الکلاب و الکالب: کتے والا۔ الکلاب: کتوں کو سدھانے والا۔ کجاوہ کے کنارہ پر کچھ لٹکانے کے لئے تیخ۔ گوشت وغیرہ لٹکانے کے لئے لوہے کا کندا۔ ج کلابیب	الکالب و الکلبیب: کتوں کا جھنڈ۔	الکلب بن کلبون و الکلب بن کلبی: کتے کے کانٹے سے دیوانہ۔ عام کلبی: سخت اور قحط کا سال۔ ذھرُ کلب: نم میں جتا کرنے والا دور۔ سائل کلب: بہت اصرار سے مانگنے والا سائل اور کہا جاتا ہے "ھو کلب علی کذا" وہ فلاں چیز کا بہت حریص ہے۔
الکلبیة: کلب: کامصدر۔ کتے کی دیوانگی۔ سخت پیاس۔ ابتدائی سرما اور کہا جاتا ہے "ذقتُ عنک کھلبُ فلان" یعنی میں نے تم سے فلاں کے شر کو دور کر دیا۔	الکلبیة: کتیا۔ کانٹا۔ أم کلبیة: بخار۔ الکلبان: لوہا کا زنبور۔ دانت اکھاڑنے کا زنبور۔ اور اس کو کلبانیہ بھی کہتے ہیں۔	الکلبیة: سخت۔ تنگی۔ قحط۔ شدت سرما۔ بلی کتے کی تھوٹھنی کے دونوں طرف کے بال۔ شراب فروش کی دکان۔	الکلب و الکلبوب: مہمیز۔ آگ نکالنے کے لئے مڑے ہوئے سر کی سلاح۔ آئکس ج کلابیب: کلابیب البازی: باز کے پتے۔ کلابیب الشجر: درخت کے کانٹے۔	الکلاب و الکالب: کتے والا۔ الکلاب: کتوں کو سدھانے والا۔ کجاوہ کے کنارہ پر کچھ لٹکانے کے لئے تیخ۔ گوشت وغیرہ لٹکانے کے لئے لوہے کا کندا۔ ج کلابیب	الکالب و الکلبیب: کتوں کا جھنڈ۔	الکلب بن کلبون و الکلب بن کلبی: کتے کے کانٹے سے دیوانہ۔ عام کلبی: سخت اور قحط کا سال۔ ذھرُ کلب: نم میں جتا کرنے والا دور۔ سائل کلب: بہت اصرار سے مانگنے والا سائل اور کہا جاتا ہے "ھو کلب علی کذا" وہ فلاں چیز کا بہت حریص ہے۔		
الکلبیة: کلب: کامصدر۔ کتے کی دیوانگی۔ سخت پیاس۔ ابتدائی سرما اور کہا جاتا ہے "ذقتُ عنک کھلبُ فلان" یعنی میں نے تم سے فلاں کے شر کو دور کر دیا۔	الکلبیة: کتیا۔ کانٹا۔ أم کلبیة: بخار۔ الکلبان: لوہا کا زنبور۔ دانت اکھاڑنے کا زنبور۔ اور اس کو کلبانیہ بھی کہتے ہیں۔	الکلبیة: سخت۔ تنگی۔ قحط۔ شدت سرما۔ بلی کتے کی تھوٹھنی کے دونوں طرف کے بال۔ شراب فروش کی دکان۔	الکلب و الکلبوب: مہمیز۔ آگ نکالنے کے لئے مڑے ہوئے سر کی سلاح۔ آئکس ج کلابیب: کلابیب البازی: باز کے پتے۔ کلابیب الشجر: درخت کے کانٹے۔	الکلاب و الکالب: کتے والا۔ الکلاب: کتوں کو سدھانے والا۔ کجاوہ کے کنارہ پر کچھ لٹکانے کے لئے تیخ۔ گوشت وغیرہ لٹکانے کے لئے لوہے کا کندا۔ ج کلابیب	الکالب و الکلبیب: کتوں کا جھنڈ۔	الکلب بن کلبون و الکلب بن کلبی: کتے کے کانٹے سے دیوانہ۔ عام کلبی: سخت اور قحط کا سال۔ ذھرُ کلب: نم میں جتا کرنے والا دور۔ سائل کلب: بہت اصرار سے مانگنے والا سائل اور کہا جاتا ہے "ھو کلب علی کذا" وہ فلاں چیز کا بہت حریص ہے۔		
الکلبیة: کلب: کامصدر۔ کتے کی دیوانگی۔ سخت پیاس۔ ابتدائی سرما اور کہا جاتا ہے "ذقتُ عنک کھلبُ فلان" یعنی میں نے تم سے فلاں کے شر کو دور کر دیا۔	الکلبیة: کتیا۔ کانٹا۔ أم کلبیة: بخار۔ الکلبان: لوہا کا زنبور۔ دانت اکھاڑنے کا زنبور۔ اور اس کو کلبانیہ بھی کہتے ہیں۔	الکلبیة: سخت۔ تنگی۔ قحط۔ شدت سرما۔ بلی کتے کی تھوٹھنی کے دونوں طرف کے بال۔ شراب فروش کی دکان۔	الکلب و الکلبوب: مہمیز۔ آگ نکالنے کے لئے مڑے ہوئے سر کی سلاح۔ آئکس ج کلابیب: کلابیب البازی: باز کے پتے۔ کلابیب الشجر: درخت کے کانٹے۔	الکلاب و الکالب: کتے والا۔ الکلاب: کتوں کو سدھانے والا۔ کجاوہ کے کنارہ پر کچھ لٹکانے کے لئے تیخ۔ گوشت وغیرہ لٹکانے کے لئے لوہے کا کندا۔ ج کلابیب	الکالب و الکلبیب: کتوں کا جھنڈ۔	الکلب بن کلبون و الکلب بن کلبی: کتے کے کانٹے سے دیوانہ۔ عام کلبی: سخت اور قحط کا سال۔ ذھرُ کلب: نم میں جتا کرنے والا دور۔ سائل کلب: بہت اصرار سے مانگنے والا سائل اور کہا جاتا ہے "ھو کلب علی کذا" وہ فلاں چیز کا بہت حریص ہے۔		

والا۔ امور لا یعنی میں پڑنے والا۔ الحکک: چھوٹی کشتیاں جو عراق کے دریاؤں میں چلائی جاتی تھیں۔ ج تکلیکات۔ الحککل ج کلاکل والکلیکال: سینہ۔ منہلی کی ہڈیوں کے درمیان کا حصہ۔ من الفرس: بیٹھنے کی حالت میں سینہ کا جتنا حصہ زمین پر لگے۔ الکلاکل: جماعتیں۔ الحککل والکلاکل: مضبوط۔ ٹھنڈے بدن کا پرست قدمرد۔ مؤنث کملکلة و کلاکلة۔ کلمنة (نض) کلمنا: زخمی کرنا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا مِمَّا يَكْلُمُ الْعُرْضَ وَالِدَيْنِ" یہ ان چیزوں میں سے ہے جو دین اور آبرو میں عیب لگائے۔ كَلَمَةُ تَكْلِيمًا: زخمی کرنا۔ تَكْلِيمًا و کلامًا: بات چیت کرنا۔ كَلَمَةُ مَكْلَمَةً: گفتگو کرنا۔ تَكَلَّمَ الرَّجُلَانِ: جدائی کے بعد گفتگو کرنا۔ کہا جاتا ہے "كُنَّا مَقْصَرَمِينَ فَأَضْحَا يَتَكَلَّمَانِ" دونوں ایک دوسرے کو چوڑے ہوئے تھے۔ پھر گفتگو کرنے لگے۔ اس موقع پر يتكلمان: ہی کہا جائے گا۔ يتكلمان: نہیں۔ تَكَلَّمَ تَكْلَمًا وَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ كَلَمَةً و کلمةً: بات کہنا۔ الكلم: مص۔ زخم۔ ج کلموم و کلام۔ الكلمة: ج کلم و کلمتات و الکلمة ج کلم و الکلمة ج کلمتات: لفظ۔ مفرد یا مرکب جو انسان بولے۔ کلمة الفوجيد: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ كَلِمَةٌ التقوى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: العشر الكليات: اللہ تعالیٰ کے دس ادکامات جو بنی اسرائیل پر نازل ہوئے تھے۔ الکلمة و کلمة اللہ: سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا لقب اور کلمت کا اطلاق خطبہ اور قصیدہ پر بھی ہوتا ہے۔ کلمة اللہ: (عیسائیوں کے نزدیک): اقنوم	تَكَلَّمَ الْقَوْمُ: جمع ہونا اور باہم قسم کھانا۔ الکلم: مرد بدقوارہ۔ فرومایہ۔ ج کلمة۔ الکلم: یوانی۔ پیر کی پھین۔ الکلمج: یوانی والا۔ جس شخص یا چیز پر میل جم گیا ہو۔ مؤنث کلمعة کہا جاتا ہے "هُوَ أَسْوَدُ كَلْبِجٍ" یعنی وہ کالا ہے اور اس کی سیاہی میل کی مانند ہے۔ الکلمعة: بکریوں کے ریڑھ کا ایک حصہ۔ بہت سی بکریاں۔ الکلمعة: ایک مرض ہے جو دانت کے پچھلے حصہ میں ہوتا ہے۔ الکولج: میل کیل۔ الکلاع: مص۔ سختی۔ شدائد میں مبر۔ مواقع جنگ۔ الکلائعی: مرد دلیر۔ کَلِيف (س) کَلِفًا الْوَجْهَ: چہرہ کا جمائیں والا ہونا۔ صفت اکلف: مؤنث کلفاء۔ پد: عاشق زار ہونا۔ صفت کحلف: الْأَمْرُ: مشقت پر برا بھینٹ کرنا۔ کلمفة: دشوار کام کا حکم دینا۔ أَكْلَفَهُ بَكْدًا: عاشق زار بنانا۔ تَكْلَفَ الْأَمْرَ: دشوار کام برداشت کرنا۔ تکلف کرنا۔ إِكْلَافٌ إِكْلَافًا: جمائیں کے رنگ کا ہونا۔ الکلف: سیاہی زردی مائل۔ جمائیں۔ الکلف: عاشق زار۔ الکلفة: جمائیں کارنگ۔ الکلمفة: مشقت۔ رنج۔ سختی۔ کسی مصیبت یا حق کے بارے میں جو رنج تمہیں لاحق ہو ج تکلف۔ التكليف: مشقت۔ ج تکاليف۔ الکلووف: دشوار امر۔ الکلافة: سخت محبت۔ اشتیاق۔ الکلفاء: اکلف: کامؤنث۔ تیز سرخ شراب جو سیاہی مائل ہو۔ سرخی سیاہی مائل شراب کا مکنا۔ المسکلف و المسکلف: تکلفات کرنے	کرنا۔ من الماء: پانی سے سیراب ہونا۔ تَكَلَّسَ: چونا یا کچ ہونا۔ چونا یا کچ کی مانند ہونا۔ من الماء: پانی سے سیراب ہونا۔ الکلس: چونا یا چونا رکھ ملا ہوا۔ الکلسه: بھوار رنگ۔ الکلیوم: کحلیوم: کیت نمبر ۱۰۰۸۔ C-A-۲۰ ایک سفید بیض مادہ جو ہڈیوں اور دانتوں کے جوڑنے میں کام آتا ہے اس کے مرکبات سے چونا اور چونا والے پتھر۔ الاکلس: چوند والا۔ چونا پیچنے والا۔ سیف کلاس: شمشیر براں۔ الکلمنة ج الکلمتات: جوار بین۔ اس کو الْقَلْبَيْنِ ج قَلَابَيْنِ: بھی کہا جاتا ہے۔ الکلابیسیکیة أو الأذب الکلابیسیکی: کلابیسی ادب کو پڑھانے کا وہ نظریہ جو کہ قدما یونان نے اختیار کیا۔ المسکلس: تیز دوڑنے والا۔ الانگلیس: ایک مچھلی جو سانپ کی مانند ہوتی ہے اور اس کو خسکلیس بھی کہتے ہیں (دخیل) کلمتم اليه: قصد کرنا۔ ارادہ کرنا۔ الرجل: تیز جانا۔ ادا حقوق میں کاہلی کی وجہ سے تاخیر کرنا۔ الکلممة: بڑھیا۔ کلمتم: الرجل: بھاگنا۔ کلیفت (س) کلمفا قدمه: قدم کا میلا ہونا اور پھٹنا۔ کلمج (س) او کلمج (ف) کلمفا الوسخ: علی زاسہ او فی زاسہ: سر پر میل کا خشک ہونا۔ کلمج زاسه: سر کا میلا ہونا۔ کلیفت قوانيم الذابية: چوپائے کی ٹانگوں میں سخت خارش ہونا۔ کلمفا و کلامعا البعير: بھٹے ہوئے کھروالا ہونا۔ اکلمعة الوسخ: میلا پھیلا ہونا۔ میل کچیل کا تہ بہہ جتنا۔
--	--	--

ثانی تین میں سے۔

الکلام: قول۔ گفتگو۔ جملہ۔

علم الکلام: اسلامی نظریات کے مطابق وہ علم جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات صفات پیدا کر تعلق اور آخرت کے متعلق بحث کی جائے۔

الکلام: سخت زمین۔

الکلمانی، والكلمانی، والكلمانی، والكلمانی: بیج اور عمدہ گفتگو کرنے والا۔ بہت بولنے والا۔ انہی میں تا لگانے سے مؤنث کا صیغہ ہو جائے گا۔

زجل تکلام و تکلام و تکلام و تکلام: عمدہ اور فصیح گفتگو کرنے والا۔

الکلیم: بجزوح۔ ج کلمی..... تمہارا ہم کلام ج کلماء۔ الکلیم و کلمیہ اللہ: حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا لقب۔

زجل کلمیہ: بہت بولنے والا۔

المستکلم: غا۔ علم کلام کا ماہر۔

المستکلم: گفتگو کی جگہ۔ تم کہتے ہو ماضی آجڈ منگلسا۔ یعنی گفتگو کی جگہ میں نہیں پاتا ہوں۔

کلی یکنی کلمیاً: الزجل: گردے پر مارتا۔ صفت مفعولی مکیلی۔

کلی (س) کلمی و کلمی: گردے پر لگانا۔

و اختلاہ: گردے پر مارتا۔

کلبی: در گردہ میں بتلا ہونا۔

کلی تکلیہ: چھینے کی جگہ میں آنا۔

ا کلوبی ا کلبیہ: کشت کھانا۔

الکلیہ و الکلیہ: گردہ۔ مثنی کلبیان و کلبونان ج کلمی و کلمیات کلمی

السوادی: وادی کے اطراف و جوانب کہا جاتا ہے "غنم حمرأہ الکلمی" دہلی کی کمریاں "لقینہ بشحم کلامہ" میں نے

اس سے آغاز جوانی اور ایام نشاط میں ملاقات کی۔ و الکلیہ من القوس: کمان کے قبضہ سے تین ہاشت..... من

السحاب: بادل کے نیچے کا حصہ الکلی من

الطیز: بازو کے چار پر۔

الکلبی: در گردہ والا۔

کلام و کلمتا: یہ دونوں اسم لفظ مفرد اور معنای ثنی ہیں اور کلام سے مذکر کی اور کلمتا سے مؤنث کی تاکید ہوتی ہے اور ہمیشہ ایسے کلمہ کی طرف اضافت ہوتی ہے جو معرفہ اور شنیہ پر دلالت کرتا ہو اور جب اسم ظاہر کی طرف اضافت ہوتی ہے تو الف اپنی حالت پر باقی رہتا ہے اور اعراب تقدیری ہوتا ہے جیسے "زایث کلاما الرجالین و کلمتا المؤمنین" اور جب ضمیر کی طرف اضافت ہو تو ثنی جیسا

اعراب ہوتا ہے جیسے "جساء الرجالین کلامہما و زایث الرجالین کلمیہما" اور جب ضمیر ان کی طرف راجع ہو تو لفظ کی رعایت جائز ہے جیسے "کلمتا المؤمنین انث اکلہما" و "زیند و عمر و کلامہما قائم" اور یہی الفح ہے اور رعایت معنی بھی جائز ہے۔ جیسے "کلامہما قافا" و "زیند و عمر و کلامہما قائمان اور یہ کم ہے۔ اور "کلامہما محب لصابجہ" جیسی ترکیب میں رعایت لفظ متعین ہے اس لئے کہ معنی شکل منہما کے ہیں۔

الانکلبیس: گر جا کے خادم۔ واحد ا کلبیہ یکلبی۔ ج ا کلبیہ یکلبون۔

کلم: دو قسمیں ہیں۔ (۱) استفہامیہ اور اس کا میز منسوب ہوتا ہے جیسے کلم دزھما لک: یعنی تمہارے کتے درہم ہیں۔

(۲) خبریہ یعنی کثیر اس کا میز مجرور ہوتا ہے جیسے کلم عبید او عبیدہ ملکث میں بہت غلاموں کا مالک ہوں۔

کلم (ن) کلمتا: چھپانا۔ پوشیدہ ہونا۔ البعیر: اونٹ کے منہ پر تھوٹنی چڑھانا..... الناس: لوگوں کا اکٹھا ہونا۔

کلمت و کلمت کلمت و کلمت النخلہ: درخت خرما میں شلو ذہ آنا۔ صفت مکوم۔

کلم و اکلم القمیض: کرتے میں آستین لگانا۔ کلمت و اکلمت النخلہ: درخت

خرما کا شلو ذہ دار ہونا۔

تکلمت بیضیہ: اوڑھنا۔ چھپنا۔ تکلمتہ: بند کرنا۔ لیپنا۔

تکلمت القوم: مد ہوش ہونا۔ ڈھانکا جانا۔

الکلم و الکلمیہ: مقدار۔

الکلمی: کم کی طرف نسبت۔ مؤنث کلمیہ۔ الکلم: آستین۔ ج اکمام و کلمتہ۔ الکلمتہ: گول ٹوٹی۔ ڈکلنا۔

الکلم: غلاف شلو ذہ۔ ج اکمام و اکمام و کمام و اکامیم۔

اکمۃ الخیل: توہرہ۔ واحد کمام۔

الکمامۃ: پھول کا غلاف۔ کھجور کے شلو ذہ کا غلاف۔

الکمامۃ و الکمام: تھوٹتی جس سے جانور کے منہ کو باندھ دیا جائے تاکہ وہ کھا اور کاٹ نہ سکے۔

المکوم: منع..... من النخل: درخت خرما جس میں غلاف شلو ذہ نکل آئے۔

المکمۃ: تھوٹتی۔

کیمی (س) کلمتا: پوشیدہ ہونا..... عن الاخیار: ناواقف ہونا۔ بے خبر ہونا۔

کیمت یندہ من البرد او العمل: ہاتھ کا سردی یا کام سے پھٹنا۔

کفۃ (ف) کلمتا: سانپ کی چھتری کھلانا۔

اکمۃ اکمۃ: ا. المنکان: بہت سانپ کی چھتری والا ہونا..... الرجال: سانپ کی چھتری کھلانا..... البسن فلاشا: بوڑھا کر دینا۔

تکلمۃ: ناپسند کرنا۔ برا جانا۔ تکلمت علیہ الارض: پوشیدہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "خسرخ الناس یتکلمون" یعنی لوگ سانپ کی چھتری چھنے کے لئے نکلے۔

الکلمۃ: حص۔ سانپ کی چھتری اور اس کو شحم الارض: بھی کہتے ہیں ج اکمومۃ و کمامۃ۔

الکمامۃ: سانپ کی چھتری بیچنے والا۔ سانپ کی چھتری بیچنے کیلئے چھنے والا۔

النَّكْمَةُ وَالنَّكْمُوتُ: سانپ کی چھتری کی جگہ۔

النَّكْمِيَّةُ: سدا ورق جو لکھا جائے۔

النَّكْمِيُّ: نقدی سکوں کا تبادلہ۔

كَمَتْ (ك) كَمَشًا وَكَمَاتَةٌ وَكُمْتَةٌ

الْفَرْسُ: کیت ہونا۔

كَمَتْ (ن) كَمَشًا، الْغَيْظُ: غصہ کو دبانا۔

كَمَتْ الْفُؤَابُ: کپڑے کو سیاہی مائل سرخ رنگ دینا۔

كَمَيْتٌ كَمَيْتًا الْخَمْرُ وَالْفَرْسُ

وغيرُهُمَا: کیت بنایا جانا۔

أَكَمَّتْ وَأَكَمَّتْ وَأَكَمَّاتُ الْفَرْسُ:

گھوڑے کا کیت ہونا۔

الْكُمْتَةُ: کیت رنگ۔

الْكُمَيْتُ مِنَ الْخَيْلِ (للمذکور

والمؤنث) سرخ سیاہ رنگ والا اور یہ خلاف

قیاس أَكَمَّتْ کی تفسیر ہے۔ ج كُمْتُ.

الْكُمَيْتُ: شراب۔ کہا جاتا ہے خَيْلٌ

كُمَيْتِي: تو تمہاری کیت گھوڑے۔

الْكُمَيْتَةُ: جڑا۔ اصل ہے "أَخَذَةُ

بِكُمَيْتِهِ" یعنی اس نے اس کو جڑ کے لے

لیا۔

كَمَشَرٌ: چھوٹے چھوٹے قدم سے چلنا.....

الْقِرْبَةُ: مشک کو بندھن سے باندھنا۔ البقاء

: مشک بھرا..... الْقَصِيُّ: پتہ قد کا دوڑنا۔

الْكُمَشْرُ وَالْكُمَاتِيرُ: موٹا۔ پتہ قد۔ سخت

مضبوط

كَمَشَرُ الشَّيْءِ: جمع ہونا اور بعض کا بعض میں

داخل ہونا۔

الْكُمَاتِيرُ: پتہ قد۔

الْكُمَشْرِيُّ: الملوٹ۔ واحد كُمَشْرَاةٌ:

ناسپاتی۔

الْكُمَجُ: بن ران۔

الْكُمَاخُ: اس کا واحد۔ کماجہ گول موٹی

روٹی جو عام روٹی سے بڑی اور نسبتاً موٹی

ہوتی ہے۔

كَمَخَ (ف) كَمَخًا الدَّابَّةُ: چوپایہ کو کھینچ

کر ٹھہرانا۔

أَكَمَخَ الدَّابَّةُ: چوپایہ کو کھینچ کر ٹھہرانا۔

الْكِرْمُ: پتے نکالنے کے قریب ہونا اور خوشہ

انگور نکلنے کی جگہ ظاہر ہونا۔

أَكَمَخَ الرَّجُلُ: بڑا بنایا جانا۔

المُكَمَخُ: بڑا بنایا ہوا۔

كَمَخَ (ف) كَمَخًا بِأَيْفِهِ: تکبر کرنا.....

الْفَرْسُ بِاللَّحْجَامِ: گھوڑے کو لگام کھینچ کر

ٹھہرانا۔

أَكَمَخَ الْكِرْمُ: پتے نکالنے کے وقت خوشہ

انگور نکلنے کی جگہ ظاہر ہونا۔

الْكُمَاخُ: غرور۔ بڑا بننا۔

الْكُمَاخُ: سائن اور بعضوں نے سرکہ کی چٹنی

کے لئے خاص کیا ہے۔ ج

كَمَخَ (س) كَمَخًا: بدلے ہوئے رنگ والا

ہونا..... الرَّجُلُ: عُم سے بیمار دل والا ہونا۔

صفت كَمَامِدٌ وَكَمِيدٌ وَكَمِيدٌ وَكَمِيدٌ

الْفُؤَابُ: پرانے ہونے کی وجہ سے بدلے

ہوئے رنگ والا ہونا۔

كَمَدَ (ن) كَمَدًا وَكَمُودًا الْقِصَارُ

الْفُؤَابُ: دھوئی کا کپڑے کو کاٹنا۔ اور اسم

الْكِمَادُ: ہے۔

أَكَمَدَ الْهَمُّ فَلَانًا: غمگین کرنا۔ اداس کرنا۔

دل کو بیمار کرنا..... وَكَمَدَ الْعُضْوُ: تکور

کرنا۔ بیٹلنا۔ صفت مفعول مَكْمُودٌ.

الْكَمْدُ وَالْكَمْدُ وَالْكَمْدَةُ: رنگ کا بدلنا۔

صفا ئی کا جانا رہنا۔ عُم۔ سخت اندوہ۔

الْكِمَادُ: تکور کرنا۔ بیٹلنا.....

وَالْكِمَادَةُ: تکور کرنے کی پٹی۔

أَكَمَدَ اللَّوْنُ: بدلے ہوئے رنگ والا ہونا۔

الْكَمْرُ: ہر وہ عمارت جس میں محراب جیسا ہو

جیسے پل وغیرہ۔

كَمَشَرُ (ش) كَمَشَرًا الْفَجِينُ

وَنَحْوَهُ: گندھے ہوئے آٹے کو ہاتھ سے

گول بنانا۔

الْكُمْرَةُ: کھجور وغیرہ کا گچھا۔ ریت یا مٹی کا

ٹیلہ۔ ج كَمَشَرٌ.

كَمَشَرُ (ن) كَمَشَرًا: تیوری چڑھانا۔

الْأَكْمَشَرُ: جو دیکھ نہ سکتا ہو۔

كَمَشَرُ (ن) كَمَشَرًا الْبَانِقَةُ: اُونٹنی کے تھن

باندھنا..... فَلَانًا بِالسَّيْفِ: تلوار سے

اعضاء کو کاٹنا..... الرَّأْدُ: توشہ ختم ہونا۔

كَمَشَرُ (س) كَمَشَرًا: پھر تیل اور کپے ارادہ

والا ہونا۔

كَمَشَرُ (ك) كَمَشَرًا: دلیر ہونا۔ كَمَشَرَتِ

الْمَرْءُ: چھوٹے پستان والی ہونا.....

وَأَكْمَشَرُ فِي الشَّيْرِ وَغَيْرِهِ: تیر چلنا۔

أَكْمَشَرُ بِالْبَانِقَةِ: اُونٹنی کے پورے تھن کو

باندھ دینا۔

كَمَشَرُ الْحَادِي بِالسُّوقِ: حدی پڑھنے

والے کا کوشش سے ہانکنا..... فَلَانًا: جلدی

کرانا..... ذُبْلَةٌ: دامن سینا۔

إِنْكَمَشَ وَنَكَمَشَ الرَّجُلُ: دوڑنا۔

نَكَمَشَ الْجُلْدُ وَنَحْوَهُ: سکرنا۔ اِنْكَمَشَ

الْفُؤَابُ بَعْدَ الْفُؤَالِ: کپڑے کا دھونے کے

بعد سکرنا..... سَمَلًا۔

الْكَمَشُ وَالْكَمِشُ وَالْكَمِشُ مِنَ

الرَّجَالِ: پھر تیل۔ کپے ارادہ والا۔ عرب

کے امثال سے ہے "كَمِشُ الْأَزَارِ" ازار

سینے والا۔ یعنی پھر تیل۔

الْكَمَشُ وَالْكَمُوشُ وَالْكَمِشَةُ

وَالْكَمِشَةُ مِنَ الْإِنَائِ: چھوٹے تھن یا

پستان والی۔

الْأَكْمَشُ: چھوٹے قدم والا جو دیکھ نہ سکتا

ہو۔ مَوْنَتُ كَمَشَاءَ ج كَمَشُ.

كَمَخَ (ف) كَمَخًا فِي الْإِنَاءِ: برتن میں منہ

لگا کر پینا..... قَوَائِمُ الدَّابَّةِ: چوپایہ کی ٹانگیں

کاٹنا..... فِي الْمَاءِ: پانی میں اترنا۔

كَمَعَتِ الدَّابَّةُ: آہستہ چلنا۔

كَامَعَهُ: ملانا۔ ہم بستری کرنا۔

إِنْكَمَخَ الْإِنَاءُ: برتن میں منہ لگا کر پینا۔

الْكَمْعُ: اترنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ

فِي كَمْعِهِ" یعنی فلاں اپنے گھنر اور اپنی جگہ

تکْمَهْلُ الشَّيْءِ: جمع ہونا۔ اِکْمَهْلُ الرِّجْلِ: سمٹ کر بیٹھنا۔ سردی سے سکڑنا۔	تَكْمَنُ (ن) كُمُونًا الشَّيْءُ: پوشیدہ کرنا۔ چھپانا۔	میں ہے۔ وادی کا گوشہ۔ قبا۔ پست زمین (.....) والكُمَيْعِ ہم خوابہ۔
كُمِي يَكْمِي كُمِيًا وَاكْمِي. شَهَادَتُهُ وَعَيْرُهَا: چھپانا کھٹی و کھٹی نَفْسُهُ: زرہ اور خود سے اپنے آپ کو چھپانا۔ اَكْمِي	تَكْمَنُ (س) وَكُمِنَ كُمُونًا: آنکھ میں تار کی یا پلکوں میں ورم والا ہونا۔ كَمِئَتْ	المُكَامِعُ: قبا۔ اپنے قریب جس سے کوئی بات پوشیدہ نہ رہے۔
عَلَى الْأَمْرِ: پکارا رہ کرنا۔ اَكْمِي السَّخَابُ: لشکر کے زرہ پوش کو قتل کرنا۔	وَكَمِئَتْ عَيْنُهُ: تار کی والی یا پلکوں میں ورم والی ہونا۔	كُمُكُمُ كَمُكُمُ الشَّيْءِ: پوشیدہ کرنا۔ تَكْمُكُمُ: گول ٹوپی پہننا..... هَيْئِي
اَكْمِي الرِّجْلَ مَنْزِلَةً: مکان کو لوگوں کی نگاہ سے پوشیدہ رکھنا۔	اَتَكْمَنُ الشَّيْءِ: چھپانا۔ پوشیدہ ہونا۔ التَّكْمِنَةُ: آنکھ کی تار کی یا پلکوں میں ورم۔	بَيْبَاهُ: چھپنا۔ التَّكْمِيمُ: پستہ قد گھٹے بدن کا۔ مَوْنَتُ
تَكْمَى الشَّيْءُ: چھپنا..... الشَّيْءُ: حفاظت کرنا اور چھپانا۔ تَكَمَّتِ الْفَيْسَةُ	وَالرَّجُلُ كَمُنَاءُ: گھات اور کہا جاتا ہے "هَذَا أَمْرٌ فِيهِ كَمِينٌ" یہ ایسا معاملہ ہے جس	كَمُكَاةً. كَمِلُ (ن) وَكَمُلُ (ك) وَكَمِلُ (س) كَمِلًا وَكُمُولًا وَتَكْمَلُ وَتَكْمَلُ
النَّاسُ: گھیر لینا۔ تَكْمِي الْجَيْشِ: لشکر کے دلاور یا زرہ پوش کو قتل کیا جاتا..... الْقَوْمُ: مدہوش ہونا۔ گھیر لیا	میں ایسا فساد ہے جو ناقابلِ سمجھ ہے۔ التَّكْمُونُ: زبیرہ۔ التَّكْمُونُ الْمُخْلُو: انیسون	وَالتَّكْمَلُ: پورا ہونا۔ کامل ہونا۔ كَمِلُ وَالتَّكْمَلُ وَالتَّكْمَلُ الشَّيْءُ: پورا کرنا۔ كَمِلُ وَالتَّكْمَلُ الشَّيْءُ: ٹوٹل کر
جانا۔ اِنْكَمِي: پوشیدہ ہونا۔ اِنْكَمِي اِنْكَمَاءً: چھپنا۔	واحد كَمُونَةٌ. التَّكْمِينُ: چھپنے کی جگہ۔ ج مکانیں۔ التَّكْمِينُ: کھین۔	دینا۔ التَّكْمَلُ: کامل۔ پورا۔ کہا جاتا ہے "أَعْطَيْتُهُ الْمَالَ كَمَلًا" میں نے اس کو پورا مال دیا
التَّكْمِي: بہادر۔ دلاور۔ ہتھیار بند۔ زرہ پوش۔ سجدہ کا محافظ۔ ج كَمْنَاءُ وَالتَّكْمَاءُ.	كَيْمَةٌ (س) كَمْنًا: اندھا ہونا۔ رتوندی والا ہونا..... بَصْرُهُ: تار کی ہونا اور بینائی کو	اور یہ لفظ جمع اور واحد میں برابر ہے اور یہ نہ تو مصدر ہے اور نہ صفت اور یہ تمہارے قول
التَّكْمِي: ہتھیار بند۔ دلیر۔ تَكْنُ (ن) تَكْنَا وَكُنُونًا وَتَكْنٌ وَتَكْنٌ الشَّيْءِ: گھر میں چھپانا اور دھوپ سے بچانا النَّهَارُ: دن کا غبار والا ہونا الرَّجُلُ: رنگ بدلا ہوا ہونا۔ غفلت زائل ہونا۔ سارے معانی میں صفت اَكْمَهُ	أَعْطَيْتُهُ الْمَالَ كَمَلَةً: جیسا ہے۔ التَّكْمَالُ: جمع۔ اسم مصدر۔ کہا جاتا ہے
..... الْعِلْمُ وَغَيْرُهُ فِي نَفْسِهِ: دل میں چھپانا۔ اِكْتَنَ الرِّجْلُ: چھپنا..... الشَّيْءُ: سفید ہونا۔	مَوْنَتُ كَمْنَاءُ ج كَمْنَةٌ. الاكْمَهُ : اندھا۔ مادرزاد اندھا۔ تَكْمَةٌ فِي الْأَرْضِ: حیران پھرنا صفت	"لَكَ كَمَالُ الشَّيْءِ" یعنی تمہارے لئے یہ چیز کل ہے۔ التَّكْمِيلُ: کامل۔
..... الْمَرْأَةُ: عورت کا شرم دھیا سے منہ چھپانا۔..... الشَّيْءُ: چھپانا۔	تَكْمِيَةٌ وَتَكْمِيَةٌ: کہا جاتا ہے ذہبت اِبْلُهُ تَكْمِيَهِي یعنی نہیں معلوم کہ اس کے اونٹ	التَّكْمِيلِيَا: ایک درخت جو کہ ہمیشہ ہبز ہوتا ہے اسکے پتے پتیلیکے پھول بڑے سرخ رنگ کے ہوتے ہیں۔ گھنص آرائش کے لئے اُگایا
تَكْمِي تَكْمِيًا: ہمیشہ گھر میں رہنا (اصل اس کی تَكْمِنُ ہے) اِسْتَكْمَنَ: چھپنا۔ گھر کی طرف لوٹنا۔	كَمَا هِيَ: کہاں گئے۔ فَكْمَهُ الْعَيْنَيْنِ: جس کی آنکھیں نہ کھل سکیں۔	جائے۔ التَّكْمَالُ: خیر یا شر میں کامل مرد۔
اَلْكِنُ: ہر چیز کی حفاظت اور پوشیدگی۔ مَنْزِلُ - گھر۔ ج اَتَكْمَانُ وَكَيْنَةٌ.	تَكْمَهْلُ الرِّجْلِ: کپڑوں کو جمع کرنا اور سفر کے لئے باندھنا..... عَلَيْنَا: حق روکنا..... التَّكْمِينُ: پوشیدہ کرنا۔ معرہ جیسا کرنا..... الْمَالَ: جمع کرنا۔	جس کے اجزاء پورے ہوں جس کی صفات پوری ہوں۔ ضد تاقص ج كَمْلُهُ.
التَّكْمَةُ: كِنُ: کا اسم مرہ۔ بہو یا بھانج۔ ج كَمَانِي.	التَّكْمِينُ: پوشیدہ کرنا۔ معرہ جیسا کرنا..... الْمَالَ: جمع کرنا۔	تَكْمِلَةُ الشَّيْءِ: جس سے کوئی چیز پوری کی جائے۔
التَّكْمَةُ: چیز کی حفاظت اور اس کی پوشیدگی سفیدی۔		تَكْمِلُ (ن) وَتَكْمِنُ (س) كُمُونًا: چھپنا۔ کچھ میں نہ آنے والے کام میں دخل دینا۔

الکُنْبَةُ: بھیجی۔ الٹی۔ کوٹھڑی کے اندر چھولی
کوٹھڑی۔ ج کُنْبَات و کُنْبَان۔

الکُنْبَان: چیز کی حفاظت اور اس کی پوشیدگی
ج کُنْبَانَة۔

الکِنْبَانَة: ترکش۔ تیردان۔ ج کُنْبَانِین
کُنْبَانَات۔

کُنْبَانُونُ الْاَوَّلُ وَکُنْبَانُونُ الثَّانِي: رومی مینے
مطابق دسبر و جنوری۔

الکُنْبَانُونُ وَالکُنْبَانُونَةُ: انگیکٹھی۔ ج کُنْبَانِین
وہ شخص جس کی صحبت سے پرہیز کیا جائے
وہ شخص جو بیٹھ کر خبر و واقعات کا پتہ لگائے تا
کہ ان کو دوسری جگہ نقل کرے۔

الکِنْبِین: چھپا ہوا۔
المُسْتَبْتِکَة: کین۔

کُنْب (ن) کُنْبُونَا الرَّجُلُ: سخت ہونا۔
فقیری کے بعد مال دار ہونا۔

کُنْب (ض) کُنْبَا الشَّيْءُ فِي جَوَابِهِ: جمع
کرنا۔ ذخیرہ کرنا۔

کُنْبِت (س) کُنْبَا الْبَيْدُ: ہاتھ کا کام کرنے
سے سخت ہونا۔

اَكُنْبُ الشَّيْءِ وَالْبَيْدُ: سخت ہونا..... عَلَيْهِ
لِسَانُهُ: زبان رکنا عَلَيْهِ بَطْنُهُ: سخت ہونا۔

الکُنْبَاب: فاقہ۔ علم سیر۔
الکُنْب: مصل۔ کام کرنے سے ہاتھ کی سختی۔

الکِنْبَاب: خوش خراما۔
الکِنْبِيب: خشک درخت۔

الکُنْبِيَّة: ظالم خبیث۔
المُسْكِبُ وَالمُسْكِبُ: کھودنے والا جس
کے ہاتھ غم کی وجہ سے سخت ہو گئے ہوں۔

خَافِرٌ مَسْكِبٌ وَمَسْكِبٌ: سخت کھر۔
المُسْكِبِيَّة: مرد پست قدم۔ سخت بدن والا۔

کُنْبِتٌ وَکُنْبِتُ الرَّجُلُ: سگڑنا۔
رَجُلٌ کُنْبِتٌ وَکُنْبَاتٌ: گھٹھے بدن کا مرد

مضبوط و قوی مرد۔
الکِنْبَات: گرنے والی ریت۔

وَجْهٌ کُنْبَابٌ: بد صورت چہرہ۔
رَجُلٌ کُنْبَابٌ: مرد بد صورت۔

الکِنْبِرَة: ناک کا موٹا سرا۔
تَكْنِبُشُ الْقَوْمُ: غلط ملط ہونا۔

السُّبُوشُ وَالسُّبُوشُ: عرق گیر۔ منہ
چھپانے کا برقع۔ ج کُنْبَابِش (دخیل)

کُنْبَتْ (ن) کُنْبَانِي خَلْقِهِ: مضبوط ہونا۔
قوی ہونا۔

کُنْبَتْ (س) کُنْبَا السِّقَاءُ: منگ کا کھر دریا
اور سخت ہونا۔

اِكُنْبْتُ الرَّجُلُ: خضوع کرنا۔ راضی ہونا۔
سِقَاءٌ کُنْبِتٌ: پانی روکنے والی منگ جس
میں ٹپکے نہیں۔

اَلْکُوْنُ: عزت داروں کا لقب جس کا معنی
ہے امیر یا عزت دار (لاطینی لفظ)

اَلْکُنْبَرَاتُو: دو یا دو سے زیادہ آدمیوں کا
ہا بھی معاہدہ کسی کام یا امر مخصوص شرائط کے
ساتھ معاہدہ کو توڑنا۔

الکُنْبِيَّة: قوی مضبوط۔
کُنْبَاتٌ کُنْبَاتَةُ الْبِخِيَّةِ: دائری طویل اور
گھٹی ہونا۔

رَجُلٌ کُنْبَا الْبِخِيَّةِ وَکُنْبَاوَهَا: لمبی دائری
والا مرد۔

کُنْبَد (ن) کُنْبُوْدَا السِّعْمَةَ: نعت کی
ناشکری کرنا۔

کُنْبَد (ن) کُنْبَا الشَّيْءِ: کاٹنا۔
الکِنْبَدَة: پہاڑ کا ایک ٹکڑا۔

الکُنْبَد: ناشکرا۔ (مذکورہ مؤنث)
الکُنْبُوْد: ناشکرا۔ تجلیل۔ تمہید۔ خد کو
ملامت کرنے والا۔ نعمتوں کو بھولنے والا
اور معاصب کو شمار کرنے والا (مذکورہ
مؤنث) اَرْضٌ کُنْبُوْدَةٌ: کچھ نہ اگانے والی
زمین۔

الکُنْبَاد: ناشکرا۔ بہت کاٹنے والا۔
الکُنْبُوْد: ایک خاردار درخت کا گوند۔

مضبوط بناوٹ والا اور جمع کی صورت میں کہا
جاتا ہے "فَقِيْسَانٌ کُنْبَادِيَّةٌ" مضبوط بناوٹ
کے جوان۔

الکُنْبُوْدَة: باز کے بیٹھنے کی جگہ۔ سخت واوچی

زمین۔

اَلْکُنْبُوْدَة: جوتیوں کی ایک قسم۔
الکُنْبَار: بیل (دخیل)

الکُنْبَارِيَّة: ایک خوش الحان پرندہ ہے جس
کے بازو کے اگلے پر لے ہوتے ہیں اور اس
کا رنگ زردی مائل ہوتا ہے اور جزائر
خالدات میں پایا جاتا ہے۔

الکِنْبَارَة وَالکِنْبَارَة: برہم یا ڈھول یا دف ج
کُنْبَابِیر وَکِنْبَارَات. الْکِنْبَارَة: کتان کے
کپڑے کا ٹکڑا۔

کُنْبَر (ض) کُنْبَرَا الْعَمَالُ: جمع کرنا۔ ذخیرہ
کرنا۔ زمین میں دفن کرنا..... السُّوْفُخ: نیزہ
کو زمین میں گاڑنا..... الشَّيْءُ فِي وَغَايِهِ او

اَرْضٍ: برتن یا زمین میں ہاتھ سے دبانا.....
السِّقَاءُ: منگ بھرتا..... کُنْبَارَا وَکِنْبَارَا)
القَمْرُ: خرما کو سردی کے زمانہ کے لئے ذخیرہ
کر کے رکھنا۔

اِكُنْبَرُ: بھرتا۔ جمع ہونا..... اللُّحْمُ: جمع ہونا
اور سخت ہونا..... الشَّيْءُ فِي الْوِغَاءِ: برتن
میں ہاتھ سے دبانا۔

تَكُنْبَرُ لِحْمَهُ: گوشت کا اکٹھا ہونا اور سخت
ہونا۔ گوشت کا گٹھا ہونا۔

الکُنْبَر: مصل ہر ذخیرہ کی ہوئی قابل رغبت
چیز۔ زمین میں دفن کیا ہوا مال۔ جس میں
مال محفوظ رکھا جائے جیسے صندوق وغیرہ۔ ج
کُنْبُوْر اور کہا جاتا ہے "شَدَّ کُنْبَرُ الْقَرْبَةِ" یعنی
بھردیا۔

رَجُلٌ کُنْبَرُ اللَّحْمِ وَکُنْبَرُهُ وَمَكُنْبَرُهُ
وَمَكُنْبَرُهُ: بہت اور سخت گوشت والا اور کہا
جاتا ہے "کِتَابٌ مُكُنْبَرٌ بِالْفَوَائِدِ" فوائد
سے بھری ہوئی کتاب۔

الکُنْبَار: کھجور یا گیہوں ذخیرہ کرنے کا
وقت۔

السِّكْنَار: ٹھوس اور مضبوط گوشت والا۔ کہا
جاتا ہے "تَجَارِيَةٌ او نَاقَةٌ کِنْبَارٌ" بہت اور
ٹھوس گوشت والی اونٹنی یا اونٹنی۔ ج کُنْبَرُ
وَکِنْبَارٌ۔

السِّكْنَار: ٹھوس اور مضبوط گوشت والا۔ کہا
جاتا ہے "تَجَارِيَةٌ او نَاقَةٌ کِنْبَارٌ" بہت اور
ٹھوس گوشت والی اونٹنی یا اونٹنی۔ ج کُنْبَرُ
وَکِنْبَارٌ۔

السِّكْنَار: ٹھوس اور مضبوط گوشت والا۔ کہا
جاتا ہے "تَجَارِيَةٌ او نَاقَةٌ کِنْبَارٌ" بہت اور
ٹھوس گوشت والی اونٹنی یا اونٹنی۔ ج کُنْبَرُ
وَکِنْبَارٌ۔

السِّكْنَار: ٹھوس اور مضبوط گوشت والا۔ کہا
جاتا ہے "تَجَارِيَةٌ او نَاقَةٌ کِنْبَارٌ" بہت اور
ٹھوس گوشت والی اونٹنی یا اونٹنی۔ ج کُنْبَرُ
وَکِنْبَارٌ۔

السِّكْنَار: ٹھوس اور مضبوط گوشت والا۔ کہا
جاتا ہے "تَجَارِيَةٌ او نَاقَةٌ کِنْبَارٌ" بہت اور
ٹھوس گوشت والی اونٹنی یا اونٹنی۔ ج کُنْبَرُ
وَکِنْبَارٌ۔

السِّكْنَار: ٹھوس اور مضبوط گوشت والا۔ کہا
جاتا ہے "تَجَارِيَةٌ او نَاقَةٌ کِنْبَارٌ" بہت اور
ٹھوس گوشت والی اونٹنی یا اونٹنی۔ ج کُنْبَرُ
وَکِنْبَارٌ۔

السِّكْنَار: ٹھوس اور مضبوط گوشت والا۔ کہا
جاتا ہے "تَجَارِيَةٌ او نَاقَةٌ کِنْبَارٌ" بہت اور
ٹھوس گوشت والی اونٹنی یا اونٹنی۔ ج کُنْبَرُ
وَکِنْبَارٌ۔

الکھنؤ: مجھوڑیں جو سردی کے زمانہ کے لئے جمع کی جائیں۔

الکھنؤ: مال کے جمع کرنے میں مبالغہ کرنے والا۔

المکھنؤ: جس میں ذخیرہ کیا جائے ج مکانیز۔

کنس (ن) کنسنا وکنسنا البیت: گھر میں جھاڑو دینا اور کہا جاتا ہے "کنس فی وجہ فلان" اس نے فلان سے ٹھٹھا کیا "ومروا بہم فکنسواہم" وہ ان کے اوپر گزرے اور ان کی جڑ مٹا دی۔

کنس (ض) کنسوا وکنس الظنی: ہرن کا جائے پناہ میں داخل ہونا۔ کنس السرجل: خیمہ میں داخل ہونا۔ کنس المرأة: عورت کا ہودہ میں داخل ہونا۔

کنس الطباء والبقر: ہرنیوں کا یا گائے کا جائے پناہ میں داخل ہونا۔

الکناسة: کوڑا کرکٹ۔ کوڑا کرکٹ کی جگہ۔

الکھنؤ: توڑا۔ یہودیوں کی عبادت گاہ۔ الکھنؤ: عند النصارى: گرجا۔ اور نصاریٰ اپنے مذہب کے مؤمنین پر بھی بولتے ہیں۔ یہودیوں کی عبادت گاہ۔ ج کناس: الکھنؤ: خوبصورت عورت۔

الکناس: ہرن کی پناہ لینے کی جگہ۔ ج آکھنؤ وکنس۔

الکھنؤ: قاف۔ ہرن جو اپنی پناہ کی جگہ میں داخل ہوجے کنس وکنس وکنو وکنو ایس "والجوارى الكنس" ستارے یا نیل گائیں یا ہرنیاں۔

الکناس: بھگلی۔ جھاڑو دینے والا۔

المکھنؤ: جھاڑو۔ ج مکانس: المکھنؤ: ہمیشہ پناہ گاہ میں رہنے والا۔

المکھنؤ: وحشی جانوروں کے گرمی کی وجہ سے چھپنے کی جگہ۔

کنس (ن) کنسنا القلوب: کپڑے کے کنارے بنانا۔ المسواک الخنس:

مسواک کا سرانزم کرنا۔

الکنسہ عن الأمر: جلدی کرانا۔

الکناسة: بیاض جس میں مفید اور نادر باتیں لکھی جائیں۔

الکناسات: جڑیں جن سے شاخیں پھوٹیں واحد کناسة۔

الکنساء من الرجال: چھوٹے چھوٹے گفتگو کرنے والے اور بلاصورت مرد۔

کنص: ٹھٹھا سے ناک کو حرکت دینا۔

الکناص: قوی اونٹ گدھے وغیرہ۔

کنص (نض) کنصا وکنصا فلانا: تمکین کرنا۔

الکنصة: غم۔ جھینچ۔ دباؤ۔

کنص (ف) کنصوا: غمنا۔ عین الأمر: بزدل ہونا اور بھاگنا۔ النعم: ستارے کا غروب ہونے کی طرف مائل ہونا۔ الیہ: فروتنی کرنا اور نرم ہونا۔ فیہ: لالچ کرنا۔

باللہ: اللہ کی قسم کھانا۔ الأمر: قریب ہونا المسک باللوب: مشک کا کپڑے سے چکنا العقباب: عقاب کا ٹوٹ پڑنے کے لئے بازوؤں کو سینا۔ اصابعہ: انگلیوں کو مار کر خشک کرنا۔

کنص (س) کنصا: خشک ہونا۔ سکرنا: صفت کنص وکنص الرجل: بچھاڑا جانا۔ الشی: لازم ہونا اور ہمیشہ رہنا۔

کنص الشی: قبضہ کرنا۔ ینذہ: ہاتھ خشک کرنا اور شل کرنا۔ فلانسا بالسیف: بند دست پر تلوار مارنا۔ غنہ: علیحدہ ہونا۔

الکنص: فروتنی کرنا۔ نرم ہونا۔ ذلت کے قریب پہنچنا۔ سوال کرنا۔

العقباب: عقاب کا ٹوٹ پڑنے کے لئے بازوؤں کو سینا۔ القوم: اکٹھا ہونا۔ الابل: اونٹوں کو قریب کرنا۔

کنص: قلعہ بند ہونا۔ الایسر فی قبہ: تسمہ سے باندھا جانا۔ یہ: چہنٹنا۔

الکنص: حاضر ہونا۔ قریب ہونا۔ علیہ: مہربان ہونا۔ القوم: اکٹھا ہونا۔ فلان:

منی: قریب ہونا۔

الکنص: قاف۔ وہ جو قریب ہو۔ جو چھوٹا ہو۔ جو بعض بعض سے قریب ہو۔ کہا جاتا ہے "أنف کانص" چپٹی ناک "ایسر کانص" تسمہ سے بندھا ہوا قیدی کی جگہ کانص: وہ شخص جو مع اہل و عیال کے تمہارے پاس آ پڑے اور تمہارے فضل و احسان کا طامع ہو۔

الکنص: سکر ہوا۔ راستہ سے ہٹا ہوا۔ ٹوٹے ہوئے ہاتھ والا۔ جسن الجوع: سخت بھوک۔

الکنص: مرض کی وجہ سے ہاتھ پیروں کا چھوٹا ہونا گویا کہ کٹا ہوا یا مڑا ہوا ہے۔

الکنص والمکنع والمکنع: شل شدہ ہاتھ والا۔ والکنص من الأمر: ناقص۔ اور اور۔ ج کنص: ینذمکنصہ: شل ہاتھ۔

المکنوع: مفتح۔ دونوں ہاتھ کٹا ہوا۔

کنص (ن) کنصا الشی: حفاظت کرنا۔ اپنے میں ملانا۔ الابل والابل: اونٹوں کے لئے ہاڑھ بنانا۔ غنہ: علیحدہ ہونا۔

الذار: گھر میں پانچا نہ بنانا۔ ینذہ: پانی وغیرہ لینے کے لئے ہاتھوں کو ملانا۔ فلانسا عین الأمر: روکنا۔

کنص وکنص الرجل: مدد کرنا۔ اعانت کرنا۔

کنص الرجل: احاطہ کرنا۔ گھیرنا۔

کنص: اونٹوں کے لئے ہاڑھ بنانا۔ کنص (کنص) القوم فلانسا: احاطہ کرنا۔ وکنص القوم: پانچا نہ بنانا۔

الکنص: تاجرا چرواہے کے سامان رکھنے والا برتن۔

الکنص: جانب۔ سایہ۔ پرندہ کا بازو۔ ج کنصا: وکنص الانسان: پہلو۔ یادوں بازو اور سینہ۔ کہا جاتا ہے "انت فی کنص السہ" تم اللہ کے حفظ و امان میں ہو۔

والکنص: گوشہ۔

الکنص: پردہ۔ پردہ کرنے والا۔ ذہال۔ جانوروں کا ہاڑھ۔ پانچا نہ۔ دروازہ کا

تھج۔ ج کُف و کُف۔

الکُفافة: روکنے والا۔ کہا جاتا ہے زَجَلٌ مُكْفِفٌ لِلْبُحْيَةِ: بڑی داڑھی والا مرد۔ دراز ریش مرد۔

الکُففرة: ناک کا بانس۔

الْكُفْرُوا: مٹھے پانی میں تیزی سے پھیلنے والی بوٹی جو کہ سبز رنگ میں تہ بہ تہ ایک دوسرے میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔

رَجُلٌ كُنْفَلِيلٌ لِلْبُحْيَةِ: بڑی داڑھی والا مرد۔

لُبْحِيَةٌ كُنْفَلِيَّةٌ: بڑی داڑھی۔

أَكْنَةُ وَالْحَسَنَةُ الشَّيْءِ: حقیقت کو پہنچانا۔

الْكُنْهَ أَصْلُ شَيْءٍ: حقیقت شے۔ جو ہر شے غایت۔ الْكُنْهَ: وقت۔

كُنْهًا يَكْنُو وَكُنِي يَكْنِي كِنَايَةً بِالشَّيْءِ عَنْ كَذَا: کننا یہ کرنا۔ لفظ بولنا اور اس کے غیر مذلول کا ارادہ کرنا۔ مثلاً تم کہو "زَيْدٌ كُنْهِي" الرِّسَالَةُ: اور سردالو کہ زید کریم ہے۔ متکلم کو کان اور لفظ کو مٹھنی عنہ کہتے ہیں۔

كُنِي يَكْنِي كُنْيَةً وَكُنِي وَكُنِي كُنْيَةً وَأَكْنَى أَكْنَاءً. زَيْدٌ أَبَا فُلَانٍ وَكُنَاهُ وَكُنَاهُ بِأَبِي فُلَانٍ: کنیت رکھنا۔

تَكْنَى تَكْنِيًا وَأَكْنَى أَكْنَاءً بكذا: اپنی کنیت رکھنا۔ وَتَكْنَى الرَّجُلُ: مشہور ہونے کے لئے اپنی کنیت بیان کرنا۔ چھپنا۔

الْكُنْيَةُ وَالْكُنْيَةُ وَالْكُنْيَةُ وَالْكُنْيَةُ: وہ نام جو کسی کی تعظیم یا علامت کے لئے بولا جائے وہ نام جواب۔ ابن۔ ام یا بنت سے شروع کیا جائے۔ ج کُنِي وَكُنِي۔

الْكِنَايَةُ: مصلح اور اصطلاح میں کنایہ اس کو کہتے ہیں کہ شے معین کو کسی ایسے لفظ سے تعبیر کیا جائے جس کی دلالت اس پر صریح نہ ہو اور ایسا کسی غرض کے لئے کرتے ہیں۔ مثلاً

سَامِعِينَ سَهَاتٍ كَوَّمَهُمْ رَكْنًا۔

الْكِنَايَةُ: ناسخ کُنَاةً وَكُنُونٌ۔

الْكِنْيَةُ: ہم کنیت۔ کہا جاتا ہے "هُوَ كُنْيَتُهُ" یعنی دونوں کے لئے ایک کنیت ہے

جیسے تم کہتے ہو "هُوَ سَمِيحٌ" یعنی دونوں ہم نام ہیں۔

كُهَبٌ (س) وَكُهَبٌ (ك) كُهَيْبًا وَكُهَيْبًا: سیاہی مائل بھورا ہونا۔ صفت کُاهِبٌ وَكُهَيْبٌ۔

الْكُهَيْبَاتُ الْكُهَيْبَاتُ: لُونُهُ: رنگ متغیر ہونا۔

الْكُهَيْبَةُ: سیاہی مائل بھورا رنگ۔

رَجُلٌ أَكُهَيْبٌ اللَّوْنُ: متغیر رنگ والا۔

كُهَيْدٌ (ف) كُهَيْدًا وَكُهَيْدًا الْحِمَارُ: گدھے کا دوڑنا۔ الْحِمَارُ: گدھے کو

دوڑانا۔ الرِّجْلُ: تھکانا۔ فِي الطَّلَبِ: اصرار کرنا۔

أَكُهَيْدٌ: تھکانا۔ فَلَاتًا: تھکانا۔

الْكُهَيْدُ: مصلح۔ مشتق۔

الْكُهَيْدَاءُ: بانڈی۔ لونڈی۔ کہا جاتا ہے اِنَانٌ كُهَيْوُذٌ الْيَدَيْنِ: تیز رفتار گدھی۔

الْكُهَيْدَلُ: جوان موٹی عورت۔ بڑھیا۔

كُهَيْزٌ: نو جوان لڑکی۔

كُهَيْزٌ (ف) كُهَيْزًا فَلَاتًا: عقارت سے ترش روئی سے جیش آنا۔ جھڑکنا۔ قہر کرنا۔

سُرْدَامًا كَاتِلًا كُرْنَا: السُّنْهَارُ: دن کا بلند ہونا۔ الرِّجْلُ: ہنسا۔ الْخَرُّ: گرمی

تیز ہونا۔

الْكُهْرُورُ وَالْكُهْرُورَةُ: ترش رو جو لوگوں کو جھڑکے۔ ج كُهْرَارِيْرٌ: الْكُهْرُورَةُ: ترش روئی۔

كُهْرَبٌ الشَّيْءِ: قوت کھربا یہ بھرنانا۔

الْكُهْرَبَاءُ وَالْكُهْرَبَاءُ: ایک درخت کا گوند ہے کہ اس کو رگڑ دیا جاتا ہے تو تنکا وغیرہ کو کھینچ لیتا ہے (دھیل) اصل میں کاہ رہا تھا۔

یعنی گھاس کو لے جانے والا۔ الْكُهْرَبَاءُ: بچل۔

الْكُهْرَبَاءِيَّةُ وَالْكُهْرَبِيَّةُ: بچل کی قوت۔

تَكُهَيْفُ الْجَبَلِ: غاروں والا ہونا۔

اِكْتُهَيْفٌ: غار میں داخل ہونا۔

الْكُهَيْفُ: کھوہ۔ غار اور کھف میں فرق یہ ہے کہ غار چھوٹا ہوتا ہے اور کھف وسیع

جائے پناہ۔ ج كُهْفُوفٌ۔

الْكُهْفُومُ وَالْكُهْفُومَةُ: بگین۔ عمر رسیدہ بڑھا۔ خرفناک مرد۔

تَكُهَيْكَةُ الْمَقْرُورُ: سردی زدہ کا سانس سے ہاتھوں کا گرم کرنا۔ الْأَسَدُ وَالْبَعِيْرُ: كُهَيْكَةُ كِي آواز نکالنا۔ الشَّيْءُ: گرم ہونا۔

تَكُهَيْكَةُ: غنہ۔ ضعیف و کمزور ہونا۔

الْكُهَيْكَةُ: مصلح۔ گرمی۔ شیر یا اونٹ کی آواز کی نقل۔

الْكُهَيْكَاةُ وَالْكُهَيْكَاةُ: کمزور۔ خرفناک۔

كُهَيْلٌ (ف) كُهَيْلًا وَكُهَيْلٌ (ك) كُهَيْلًا: ادھیڑ عمر کا ہونا۔

الْكُهَيْلُ: پوری لمبائی کا ہونا۔

الْكُهَيْلَةُ وَالْكُهَيْلَةُ: ادھیڑ عمر۔ الْكُهَيْلَةُ: ادھیڑ عمر کا ہونا۔ الْبَنَاتُ: پوری لمبائی کا ہونا۔ الْكُهَيْلَةُ وَالْكُهَيْلَةُ: ادھیڑ عمر۔ الْكُهَيْلُ: ادھیڑ عمر کا ہونا۔ الْبَنَاتُ: پوری لمبائی کا ہونا۔ الْكُهَيْلَةُ وَالْكُهَيْلَةُ: ادھیڑ عمر۔ الْكُهَيْلُ: ادھیڑ عمر کا ہونا۔ الْبَنَاتُ: پوری لمبائی کا ہونا۔

كُهَيْمٌ (س) وَكُهَيْمٌ (ك) كُهَيْمًا وَكُهَيْمًا: کمزور ہونا۔ السَّيْفُ: کند ہونا۔

كُهَيْمٌ (ك) وَكُهَيْمٌ (ف) كُهَيْمًا وَكُهَيْمٌ الرَّجُلُ: لڑائی اور مدد سے سستی

بنانا۔

كُهَيْمٌ (س) وَكُهَيْمٌ (ك) كُهَيْمًا وَكُهَيْمًا: کمزور ہونا۔ السَّيْفُ: کند ہونا۔

کرنا۔

أَكْهَمَ بَصْرَهُ: نگاہ کمزور ہونا۔

الْكَهْمُ وَالْكَهْمِيُّ: ست۔ عمر رسیدہ جس کے پاس کوئی مال نہ ہو اور جمع کی صورت میں بھی "قَوْمٌ كَهْمٌ" کہا جاتا ہے۔

كَهْمَسَ الرَّجُلُ: چلنے میں دونوں پاؤں کو قریب قریب رکھنا۔ چلنے میں غبار اُڑانا۔

الْكَهْمَسُ: شیر۔ بھیڑیا۔ بد صورت پرستہ قد مرد۔

الْكَهْمَلُ: ایسا شخص جس کی صحبت کو لوگ پسند نہ کریں۔

كَهْنٌ (ف۔ ن) كَهْنَانَةٌ وَكَهْنٌ تَكْهِنُهَا وَتَكْهِنُنَا لِفُلَانٍ: غیب کی باتیں بتلانا۔

كَهْنٌ (ك) كَهْنَانَةٌ: کاہن ہونا یا کہاوت طبیعت ثانیہ بن جانا۔

كَاهَنٌ مَكَاهِنَةٌ: عطا کرنا۔ ایک دوسرے کو مدد دینا۔ میل ملاپ کرنا۔

الْكَهْنَانَةُ: کاہن کا پیشہ۔

الْكَهْنُوتُ: کاہن کا فریضہ۔ کاہن کی تنخواہ۔ کاہن کا درجہ۔

الْكَاهِنُ: فاد۔ غیب دانی کا مدعی۔ عِنْدَ الْيَهُودِ وَعِنْدَ الْأَوْتَانِ: پر وہبت۔ عِنْدَ النَّصَارَى: جو کہنوت کے درجہ پر ہوج

كَهْنَةٌ وَكَهْنَانٌ الْكَاهِنُ: دوسرے کے کام کا متکفل اور کوشش کرنے والا۔

كَهْنِي يَكْهِنِي كَهْنِي: چہرے پر جھانکے والا ہونا۔ گندہ ذہن ہونا۔ بزدل و کمزور ہونا۔

كَاهِنِي مَكَاهِنَةُ الرَّجُلِ: ہام فخر کرنا۔

أَكْهَسِي: انگلیوں کے اطراف کو سانس سے گرمی پہنچانا۔ عَنِ الطَّغَامِ: بازار ہنا۔

أَكْهَيْتَاهُ أَكْهَيْتَاهُ: تعظیم و اجلال کرنا۔

الْأَكْهَسِيُّ: چہرے میں جھانکے والا۔ گندہ ذہن۔ بزدل و کمزور۔ أَلَا كَهْنَسِي: بے شگاف کا پتھر۔

الْأَكْهَاءُ: شرفاء۔

كَهْمًا يَكْهَمُ كَهْمًا أَوْ كَاهِنًا عَهْدًا: خوف کرنا۔ بزدل ہونا۔

أَكْهَاءُ هَاكِئًا وَهَاكِئَةً: کسی کام پر اچانک پہنچنا اور پھر خوف سے چھوڑ دینا۔

الْكَهَاءُ وَالْكَهَاءَةُ وَالْكَهِيُّ وَالْكَيْئَةُ: کمزور دل والا۔ بزدل۔

كَتَابٌ يَكُوتُ كَوْثًا وَكُتَابٌ: بے دستہ کے کوزہ سے پینا۔

كُوتُ الشَّيْءِ: بے سے کوفنا۔

الْكُوتُ: بے دستہ کا کوزہ۔ جِ الْكُوتَابِ: الكؤنية: فوت شدہ پر حسرت و انوس۔

الْكُوتَةُ: شطرنج۔ نرد۔ ڈگڈگی۔ برہلہ۔ دوا وغیرہ پینے کا پانا۔

كُوتُ: الزُّرْعُ: چار پانچ پتوں والی ہونا۔

الْكُوتُ: جوتا۔

الْكُوتَةُ: فراخ سال۔

تَكُوتُ: العُبَارُ: زیادہ اورتہ بہ ہونا۔

الْكُوتُ: بہت اورتہ بہتہ۔ بہت اورتہ بہتہ غبار۔ بہت بڑا فیاض سردار۔ جنت کی ایک نہر۔

الْكُوتُ وَالْكُوتُ: جہاز کا پھیلا حصہ۔

كُوتُ يَكُوتُ كُوتًا وَكُوتًا وَكُوتًا وَكُوتًا: مُكَاوِخَةٌ وَكُوتًا وَكُوتًا: لڑائی میں

غالب آنا۔ كُوتُ الشَّيْءِ: پانی میں ڈبونا۔

مٹی میں دباننا۔ كُوتًا: غالب بنانا۔ كُوتُ: فُلَانًا: ذلیل کرنا۔ رُدُّكَ: كُوتُ الزَّمَامِ البعيرُ: مغلوب کرنا۔ كُوتًا: گالی گلوچ کرنا۔ كُوتًا: ہلاک کرنا۔

تَكَوَتُ الرَّجُلَانِ: باہم جنگ و جدال کرنا۔

الْكُوتُ وَالْكُوتُ: دامن کوہ۔ جِ الْكُوتُ وَالْكُوتُ: کہا جاتا ہے "رَجَعَ السِّي كُوتًا" یعنی پہلے اس نے کچھ بھلائی کی اور پھر بازار ہا۔

الْكُوتُ وَالْكُوتُ: جھوپڑی اور اسی سے ہے كُوتُ الضالِدِ: کھیت یا باغ کی جھوپڑی جس کو کاشت کار کھیت کی حفاظت کے لئے اور باغبان باغ کی حفاظت کے لئے بنا لیا کرتے ہیں۔ جِ الْكُوتُ وَالْكُوتُ: خُوتَانٌ وَكُوتَانٌ وَكُوتَانٌ: زمین کھودنا۔

كَيْئَةً كُوتًا: تاریک رات۔

الْكُوتَةُ عِنْدَ رَبِّ السِّيَابِ: والی کا معتمد۔ محافظ اسرار۔ یہ اصل میں

کنستبل تھا تحریف ہو کر کُوتہ بن گیا۔ جِ الْكُوتُ (دخیل)

كُوتًا يَكُوتُهُ كُوتًا: روکنا۔ كُوتًا بِنَفْسِهِ: جان دینا۔

كُوتًا يَكُوتُهُ كُوتًا وَمَكُوتًا وَمَكُوتًا: فعل کرنے کے قریب ہونا اور نہ کرنا۔ جیسے

"كُوتًا يَكُوتُهُ" مارنے کے قریب ہوا مگر مارا نہیں۔ اور یہ افعال مقابہ میں سے ہے

اور اس کے خبر کے ساتھ حرف ان بہت کم آتا ہے اور کبھی ارادہ کرنے کے معنی میں بھی

آتا ہے اور اسی سے ہے كُوتًا أُكُوتُهُ یعنی میں نے اس کو پوشیدہ کرنے کا ارادہ کیا اور

"عَرَفْتُ مَسَا يَكُوتُهُ" یعنی جو ارادہ کیا جائے اور کاد کے عوض میں "يَكُوتُهُ يَفْعَلُ كُوتًا" بھی سنا گیا ہے اور کبھی "كُوتًا" زائدہ

ہوتا ہے اور کلام کا صلہ واقع ہوتا ہے جیسے "لَمْ يَكُوتُهُ" معنی میں لَمْ يَكُوتُهُ يَرَاهَا کے۔

كُوتُ الشَّيْءِ: جمع کرنا اور ایک ڈھیر بنانا۔

أَكُوتُهُ أَكُوتُهُ: بوزھا ہونا اور لرزہ زدہ ہونا۔

الْكُوتَةُ: مٹی وغیرہ کا تودہ۔

السُّكَاةُ: بھس۔ کہا جاتا ہے "لَا مَهْمٌ لِي وَلَا مَكَاةٌ" نہ تو مجھے اس کا قصد ہے اور نہ اس کے قریب ہوں۔

الْكُوتُ وَالْكُوتُ: غیر اصل گھوڑا۔ ہاتھی۔ خیر ٹو۔ كُوتُ: جمع كُوتَانِ.

كُوتًا لَأَزَارًا: ازار کا گرنا اور ران کے اوپر حصہ تک آ جانا۔

الْكَاةُ: ران کے اوپر کا بھرا ہوا گوشت۔ الْكَاةِيُّ: کیوڑہ۔

كُوتًا يَكُوتُ كُوتًا: العَصَاةُ وَنُوتُهُا عَلِي زَائِبَةٌ: سر پر چڑی یا ندھنا۔ الْاَرْضُ: زمین کھودنا۔

..... فِي سَمِيهِ مَشْتَبِهٌ تَمِيزٌ جَلَانَا..... الْحَمَالُ
 الْكَوَاذِبُ: كُفْرِي أَهْمَانَا (..... كَيْبَارًا الْقُرْسُ
 ذَنْبِهِ كَهَوْرِي كَادُوْرُنِي فِي دَمِ أَهْمَانَا -
 كُوْرُ الْعَمَانَا: سِرٌّ بِرِي كَيْبَارِي بَانْدَهْنَا.....
 بِجَارَانَا: نِيْزَه مَار كَر كَرَادِيْنَا..... الْمَتَاعُ: نَه
 بِيْر كُهْنَا..... اللَّيْلَةُ اللَّيْلُ عَلَى النَّهَارِ: اِيْكُ كُو
 دُوْرِي فِي دَاخِل كَرْنَا -
 كُوْرِيْبُ الشَّمْسِ: آفَاتُ كِي رُوْشِي كُوِيْدِي كَر
 وَيْنَا اُوْرِيْقُوْلُ بَعْضُ مَتَمَحَل كَر دِيْنَا -
 اِكْتَاْرُ اِكْتَاْرَةٍ عَلَيْهِ: ضَعِيْفٌ وَكُزُوْرٌ جَهْمَانَا -
 ذَلِيْلٌ كَرْنَا -
 تَكُوْرُ: كَرْنَا - بِجَارَانَا - تَمِيزٌ كَر جَارَانَا -
 اِكْتَاْرُ اِكْتِيَارًا: عَمَامَه بَانْدَهْنَا..... الْقُرْسُ:
 دُوْرُنِي فِي دَمِ أَهْمَانَا..... الشَّمْسُ: بَعْضُ كُو
 بَعْضُ بِرِي كَيْبَارَانَا..... الرَّجُلُ: تَمِيزٌ جَلَانَا - بِجَارَانَا
 جَانَا - كَرْنَا - كَمَا جَاتَا هِي "كُوْرِيْبَةُ فَالْكَتَاْرُ" بِيْنِي
 اِسْنِي بِيْجَارَانَا هُو كَر كَرِيَا..... الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ
 كَالِي دِيْنِي كَلِي آ مَادَه هُوْنَا -
 اِسْتِكَاْرُ اِسْتِكَاْرَةٍ: تَمِيزٌ دُوْرِيْنَا - اِيْجَانِي بِيْجِيْهٍ بِر
 كُفْرِي أَهْمَانَا -
 الْكَسَاْرُ: اِيْكُ قِسْمٌ كَا جِهَارٌ - قَلْدٌ سِيْهْرَا هُوَا
 جِهَارٌ جَلَانَا تَا -
 الْكُوْرُ: مِصٌ - عَمَامَه كَا بِيْجِيْهٍ - بُوِي جَمَاعَتٌ -
 اُوْدُنُوْلٌ يَا كَالِيُوْلُ كَا كَلْدٌ - زِيَادَتِي - ج
 اِكُوَارُ. الْكُوْرُ: طَبِيْعَتٌ - عَادَتٌ - كَمَا جَاتَا
 هِي "لَه كُوْرُ كُفْرِيْنِهْمُ" اِس كِي طَبِيْعَتٌ اِجْمَعِي
 هِي -
 الْكُوْرُ: مِثْلِي كِي اِكْتِيَابِيْهِي - ج اِكُوَارُ وَ اِكُوْرُ
 وَ كَيْسِرَانُ وَ كُفُوْرَانُ. الْكُوْرُ: كَبُوْرُوْلُ كَا
 جَهْمَانَا - لُو بَار كِي مِثْلِي - (..... وَ الْمَكُوْرُ) اُوْدُنُ
 كَا كَبَادَه - كَبَادَه مَعَ سَامَان -
 الْكَوَاْرَةُ مِنَ الْبِيَابِ: دُحُوْبِي كِي كَبُوْرُوْلُ كِي
 كُفْرِي - قَلْدٌ كِي اِيْكُ مَقْدَارٌ مَعْلُوْمٌ - ج
 كَارَاتُ
 الْكُوْرَةُ: جَلْعٌ - ج كُوْرُ
 الْكُوَاْرَةُ وَ الْكُوَاْرَةُ الْكُوَاْرَةُ: شَهِيْدِي كَلْبِيُوْلُ
 كَلِي لِيْهِي يَامِيْنِي كَا بِنَا يَا هُوَا كَر وَ نَدَه - شَهِيْدٌ مَعَ

موم کے۔

الْبِكُوَاْرَةُ: عَمَامَه - كَبُوْرِي - وَ الْكُوَاْرَةُ: تَمِيزٌ
 دُوْرٌ -

الْكُوْوَارُ: اِيْكُ زَبْرِيْلَا يُوْدَا جِس كُوَا سْتِعْمَالُ
 كَمَا جَائِي تُوَا اِنْسَانِي شَيْخِي كَمُزُوْرِي سِي كَمُزُوْرُ
 هُوْتِي جَاتِي هِي خَاصٌ كَر اِس وَ قَتٌ
 خَطَرْنَا كَ هُوْتِي هِي جَب زُجْمِي اِنْسَانُ كِي
 خُوْنٌ فِي سِرَايْتُ كَر جَائِي -

الْمَكُوْرُ وَ الْمَكُوْرَةُ: عَمَامَه -
 الْمَكُوْرِي وَ الْمَكُوْرِي: فَرُوَادِيَه - كَمِيْنَه -
 يُوْرِي بَدَنُ كَا يِيْتَه قَلْدٌ -

كَمَازِي كُوْرُ كُوْرَا: كُوْرِي سِي بِيْنَا.....
 الشَّمْسُ: جَمْعٌ كَرْنَا -

تَكُوْرُ. الْقَوْمُ: قَوْمٌ كَا اِكْتَاْرَا هُوْنَا -
 اِكْتَاْرُ: كُوْرِي سِي بِيْنَا..... الْعَمَاءُ: كُوْرِي
 سِي لِيْنَا -

الْكُوْرُ: كُوْرَه - ج اِكُوَارُ وَ كَيْبَارَانُ وَ كُوْرَةُ
 (دُخُلُ) -
 كُوْرُ الرَّاسِ: لِيْهِي سِرُوَالَا -
 الْكَازُ النَّقْطُ: بِزُوْلٌ -

كَمَا سِي يَكُوْرُ كُوْرَا بِيْجِيْرُ: اِيْكُ ثَا نَا كُ
 كِي رُجْمِي هُوْنِي كِي وَ جِي سِي تَمِيْنُ ثَا كُوْلُوْلُ بِرِي جَلَانَا
 فِي السَّبِيْرِ: آهْتَه جَلَانَا - كَمَا جَاتَا هِي "فَلَانُ
 يَكُوْرُ فِي السَّبِيْرِ" فُلَانُ جَلْنِي فِي دِيْر كَرْنَا
 هِي..... عَلِي رَا بِيْهِي: سِر كِي بِلُ اَلْتُ پُرْنَا
 فِي الْبَيْعِ: قِيْمَتٌ كُهْنَا - كَمَا جَاتَا هِي "لَا
 تَكُفِيْبِي يَا فُلَانُ فِي الْبَيْعِ" اِي فُلَانُ
 مِيْرِي لِيْهِي قِيْمَتٌ كُهْنَا..... السَّحِيْبَةُ
 كُنْدَلِي مَارْنَا -

كَمَا سِي وَ اِكْتَاْسَةُ اِكْتَاْسَةُ: بِجَارَانَا -
 كُوْرُ الشَّمْسِ عَلِي رَا بِيْهِي: سِر كُوْلُوْلُ كَرْنَا -
 تَكُوْرُ الرَّجُلِ: سِر كُوْلُوْلُ هُوْنَا -

تَكَاوُسٌ لَحْمُهُ: كُوْشَتُ كَا نَدَه بِيْتَه هُوْنَا.....
 الْعُشْبُ: كُهْسُ كَا كُهْمَانُ اُوْرِي بِيْتَه هُوْنَا -
 اِكْتَاْسَةُ عَن حَاجَتِيْهِي: رُو كُنَا -

الْكَاْسُ: كُهْسُ كَا كُهْمَفٌ بِمَعْنِي بِيَالَا -
 الْكُوْسُ: مِصٌ - دُرِيَا كَا تَلَا طِمٌ - دُو بِيْنِي كِي

قريب ہونا۔

الْكُوْسُ: دُحُوْبُلٌ - اِيْكُ مِثْلُثٌ بِيَانَه جِس كُو
 بَرُوْجِي اِسْتِعْمَالُ كَرْتِي هِي - ج كُوْسَاتُ
 (دُخُلُ) لَمُتْعَةٌ كُوْسَاءُ: خُشْكٌ كُهْسَا كَا مِثْلَا -
 اِيْپِسُ فِي اِيْكُ دُوْرِي سِي بِرِي لِيْنَا هُوَا - ج
 كُوْسُ. رِغَالٌ كُوْسُ: رِيْتٌ نَدَه جَمَا هُوَا -
 الْكُوْسِيْئِي مِنَ الْخَيْلِ: جِيُوْتِي ثَا كُوْلُوْلُ وَ اَلَا
 كُهُوْرَا - مَوْنُثٌ كُوْسِيْئِيَهِي -

الْمَكَاْسُ: سَا نَبُ كِي كُنْدَلِي مَارْنِي كِي كَلْدٌ -
 الْمَكُوْسُ: بِيْجِي كِي كُهْمُرُوْرِي سِي كَرْنِي كِي
 جِيْجِي جَلَانَا سِي -

كُوْسَجٌ وَ كُوْسَجٌ الرَّجُلُ: كُوْرُجٌ هُوْنَا -
 الْكُوْسَجُ: صِرْفٌ كُوْرِي بِرُوَا رُجْمِي وَ اَلَا - كَمُ
 دَا نُوْتُوْلُ وَ اَلَا - آهْتَه جَلْنِي وَ اَلَا كُهُوْرَا - ج
 كُوَا سِيْجٌ -

الْكُوْسَجُ: اِيْكُ قِسْمٌ كِي مِجْلِي جِس كِي نَا كُ آ رُو
 كِي طَرَحٌ هُوْتِي هِي -
 كَمَا سِي يَكُوْرُ كُوْرَا عِنْدَه: بِيْتَه كُهْمُرَا -

الْحَاْرِيَةُ: جَمَاعٌ كَرْنَا -
 كُوْعُ (س) كُوْعَا: بُوْرِي بِنْدُوْسَتُ وَ اَلَا
 هُوْنَا - مَرِي هُوْنِي بِنْدُوْسَتُ وَ اَلَا هُوْنَا -
 صِفَتٌ اِكُوْعٌ مَوْنُثٌ كُوْعَا جَلَانَا كُوْعُ -

كَمَا جَاتَا يَكُوْعُ كُوْعَا الْكَلْبُ: كَرْمِي كِي وَ جِي
 سِي بِنْدُوْسَتُ بِرِي جَلَانَا - رُجْمِي هُوْنِي كِي وَ جِي
 سِي بِنْدُوْسَتُ بِرِي جَلَانَا -

كُوْعَا بِالسَّبِيْرِ: تَلُوَا مَارْنِي سِي بِنْدُو
 دَسْتُ كَا نِيْرَا هَا كَرْنَا -

تَكُوْعَتٌ يَذُه: بِنْدُوْسَتُ كَا نِيْرَا هَا هُوْنَا -
 الْكَمَاْعُ وَ الْكُوْعُ: اِن كُوْعِي كِي جَانِبُ بِنْدُو
 دَسْتُ كَا كُنَا رَه - ج اِكُوْعُ -

الْكُوْعُ: مِصٌ - بِنْدُوْسَتُ كِي بُوِي فِي نِيْرَا هَا
 پِيْنٌ - بِيْر كِي اِن كُوْعِي كِي دُوْرِي اِن كُوْعِيُوْلُ كِي
 طَرَفٌ بِيْتَه جَهْمَا وَ -

كَمَا جَاتَا يَكُوْفُ كُوْفَا الْاَدِيْمُ: بِزُوْرِي كِي
 كُنَا رُوْلُ كُوْلَا كَرِيْنَا -

كُوْفُ الْاَدِيْمُ: كَلْدِي كَلْدِي كَرْنَا.....
 الشَّمْسُ: عَلِيْجَه كَرْنَا..... الْكَاْفُ: حَرْفٌ كَا ف

لکھنا: الرَّجُلُ: کوفہ میں آتا۔

تَكْوُفُ الْقَوْمِ تَكْوُفًا وَتَكْوُفًا عَلَى غَيْرِ الْقِيَّاسِ: جمع ہونا..... الرَّجُلُ: اہل کوفہ کے مشابہ ہونا یا اہل کوفہ کی طرف منسوب ہونا۔

الْكُوفَةُ: عراق کے ایک شہر کا نام۔ ریت کا گول سرخ نیل۔

الْكُوفِيُّ: کوفہ کی جانب منسوب اور اسی سے ہے خط کوفی۔

الْكُوفِيُّونَ: کوفہ کے نحوی حضرات۔

الْكُوفِيَّةُ: کُوفِي كَامُونْت - سر پر لپٹنے کا رومال اور عوام اسے الگفیبہ کہتے ہیں۔

كُوِفَتِ الْمَرْأَةُ ابْنَهَا: عورت کا بچے کو گول کپڑا پہینا۔ الْكُوفِيَّةُ: مربع شکل کا سفید کپڑا جو کہ بچوں کو پہینا جاتا ہے۔

الْكُوفَانُ وَالْكُوفَانُ وَالْكُوفَانُ وَالْكُوفَانُ: گول تو دودھ ریت۔ گول چیز۔ عزت و شوکت و بلندی و مشقت۔ نرکل پانس۔ لکڑی کا

جھنڈا۔ اور کہا جاتا ہے "ظَلُّوا فِي كُوفَانٍ مِّنْ أَمْرِهِمْ" ان کا معاملہ گڑبڑ ہو گیا "وَهُمْ فِي كُوفَانٍ مِّنْ ذَلِكَ" وہ لوگ اس سے

عزت و شوکت میں ہیں۔ یعنی لوگ گڑبڑی میں ہیں۔ کہا جاتا ہے "السَّاسُ فِي كُوفِي مِّنْ أَمْرِهِمْ"۔

الْكُوفَةُ: ایک درخت جو دو یا تین میٹر سے زیادہ لمبا ہوتا ہے۔ اس کے پتے انڈے کی شکل میں ہوتے ہیں اس کو کاکین حاصل کیا

جاتا ہے۔

الْكُوفِيُّونَ: ایک نشہ آور مادہ جو "کوکہ" سے نکالا جاتا ہے۔

كُوفَتِ الْحَدِيدُ: چمک اٹھنا۔ چم چم کرنا۔

الْكُوفُ: ستارہ۔ تلواری۔ پانی۔ گرمی کی سختی۔ لوہے کی چمک دک۔ لمبی نباتات۔

سر دار قوم۔ شہسوار قوم۔ میخ۔ قید خانہ۔

بتھیار بند۔ قریب البلوغ لڑکا۔ باغ کی کلی۔ فوج۔ پہاڑ۔ آکھ کا پھول۔ چیز کا بڑا

حصہ۔ شبنم جو گھاس وغیرہ پر پڑی ہوئی ہو

زمین کا خطہ کہ اس کا رنگ دوسرے خطے سے

مختلف ہو۔ كُوفَتِ الْبُيُوتُ: کونوں کا سوت۔

رَجَ كُوفَا كَب كَمَا جَاتَا هُ "ذَهَبُوا تَحْتِ كُفِي كُوفَا كَب" یعنی متروک ہو گئے "وَيَوْمَ ذُو كُوفَا كَب" تختیوں والا دن۔

الْكُوفِيَّةُ: ایک ستارہ۔ ایک کلی۔ جماعت۔

الْمُكُوفَةُ: آکھ کے پھولے والا۔ كُوفِي كُوفِي كُوفِي: تیز چلنے میں جھومنا۔ قد کا دوڑنا۔

الْكُوفَةُ وَالْكُوفِيَّةُ: پستہ قد۔ الْمُكُوفِيَّةُ: بے برکت۔ کیکڑا۔

تَكْوُفُ الْقَوْمِ: اکٹھا ہونا..... وَانْكَالَ اِنْكِيَالًا الْقَوْمِ عَلَيْهِ: مار پیٹ گالی گلوچ کے لئے کسی پر ٹوٹ پڑنا۔

تَكَوَلَّ الرَّجُلُ: کوتاہی کرنا۔ باز رہنا۔ الْكُوفَانُ وَالْكُوفَانُ: بردی نام کی ایک گھاس واحد كُوفَانَةٌ۔

الْاِكْوَؤَلُ: پہاڑ کی مانند بلند زمین۔ ج اِكْوَؤَلُ۔

كَمَام (ن) كُوفُمًا وَكُوفَمَةُ الْجَارِيَّةُ: جماع کرنا..... الْفَرَسُ وَغَيْرُهُ: جفتی کرنا۔

كُوفَمَت (س) كُوفَمًا النَّاقَةُ: اونٹنی کا بڑی کوہان والی ہونا۔

كُوفَمَتُ كُوفِي مِمَّا التُّرَابُ: مٹی کو تودہ تودہ کرنا..... الْمَتَاعُ: سامان کا ڈھیر لگانا..... نِيَابَةٌ فِي قُوفٍ وَاجِدٍ: کپڑوں کو ایک کپڑے میں

باندھنا۔

اِحْتِسَامٌ اِحْتِسَامًا الرَّجُلُ: پیر کی انگلیوں کے اطراف پر بیٹھنا۔

الْكُوفُ: اونٹوں کا گلہ۔ رَجَ اِكْوَؤَامُ: بلند جگہ۔ ٹیلر ج کیمان۔

الْكُوفَةُ وَالْكُوفَةُ: مٹی کا ڈھیر۔ رَجَ كُوفُؤَامُ وَاِكْوَؤَامُ۔

الْاِكْوَؤَامُ: بلند۔ بڑے کوہان والا اونٹ۔ مَمُونَتُ كُوفَمًا رَجَ كُوفُؤَامُ۔

الْكُوفِيُّونَ: بڑھئی کی اجرت۔ کمیشن ایجنٹ کی اجرت۔ سیاسی و تجارتی معاملات کو

درست کرنے کے لئے ایک منظم جماعت جس کو عربی میں اَلْجَمْعَةُ بولتے ہیں۔

الْكُوفِيُّونَ: سامان برآمد کرنے والا۔

كَانَ يَكُونُ كُوفًا وَكِيَانًا وَكِيَانًا الشَّيْءُ: نوید ہونا۔ واقع ہونا۔ پایا جانا۔

ہونا۔ کان افعال ناقصہ میں سے ہے۔ مبتدا و خبر پر داخل ہوتا ہے۔ مبتدا کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے اور خبر کو مبتدا کے لئے ثابت کرتا ہے اور مبتدا کو اسم کان کہا جاتا ہے جیسے "كَانَ زَيْدٌ قَائِمًا" اور بھی تامہ ہوتا ہے جیسے "فَقَالَ اللَّهُ لِيَكُنْ نُورٌ فَكَانَ نُورٌ" اور عجب کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے "كَانَ اللَّهُ وَلَا شَيْءٌ مَعَهُ" اور حصر کے معنی میں بھی جیسے "إِنَّ كَسَانَ ذُو عُسْرَةٍ قَطْرَةٌ أَلْسِي مَبْسُورَةٌ" اور وقع کے معنی میں جیسے "فَمَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ" اور نبيغی کے معنی میں جیسے "فَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَبْتِنُوا شَجَرَهَا" اور

استقبال کے معنی کے لئے جیسے "تَبْتَخَاهُونَ يَوْمًا كَانَ سُورُهُ مُسْتَقْبِرًا" اور زمانہ ماضی کے لئے جیسے "كَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةَ رَهْطٍ" اور زمانہ حال کے لئے جیسے "كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ" اور بھی دوام و استمرار کا فائدہ دیتا ہے جیسے "كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا" اور کہا جاتا ہے "صَارَ إِلَى كَسَانَ"۔ یعنی مر گیا اور شئی اور جمع میں کہا جاتا ہے "صَارُوا إِلَى كَسَانُوا" اور "كُنْتُمْ اَلْكُوفَةُ" یعنی میں کوفہ میں تھا "وَمَسَارِلُ اَقْفَصَرَتْ كَسَانَ لَمْ يَكُنْهَا أَحَدٌ" یعنی منازل خالی ہو گئے گویا کہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ "وَكَسَانُهُمْ" بمعنی كُنْتُمْ لَهُمْ۔

كَانَ يَكُونُ كُوفًا وَكِيَانًا عَلَى فُلَانٍ: ضامن ہونا۔ ذمہ دار بننا۔

كَوْنٌ تَكْوِينًا الشَّيْءُ: پیدا کرنا۔ ایجاد کرنا۔ تَكْوِينٌ: پیدا کرنا۔ ایجاد ہونا۔ متحرک ہونا۔

اِحْتِنَانٌ اِحْتِنَانًا بِفُلَانٍ وَعَلَيْهِ: ضامن ہونا۔ ذمہ دار بننا۔

إِسْتَحَانَ اسْتِحَانَةً لِفُلَانٍ: فروتنی کرنا۔
عاجزی ظاہر کرنا۔
الْكُوْنُ: موص۔ عالم وجود۔
الْكُوْنِيُّ: کون کی جانب منسوب۔
الْكُوْنِيُّ: عمر رسیدہ۔ بڑی عمر والا۔
الْكِيَانُ: موص۔ طبیعت۔ فطرت۔
الْكِيَانَةُ: ضمانت۔ کفالت۔
الْكُوَيْبِيُّ: موص۔ معدوم کو عدم سے وجود
میں لانا۔ سفسر السُّكُوَيْبِيُّ: بائیل کی پہلی
کتاب موسوم یہ کتاب پیدائش۔
الْكَلْبِيُّ: فال۔ ہونے والا۔ واقعہ۔ حادثہ۔
الْكَلْبَانَةُ: مؤنث کسان حادثہ کسانیات
و کوازن۔ الكَلْبَانِيَاتُ: موجودات۔
الْكُنْبِيُّ وَالْكُنْبِيُّ: بڑی عمر والا۔ گویا کہ وہ
اپنے قول "كُنْتُ فِي سَبَابِي كَذَا"
و كَذَا" کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ تم
کہتے ہو "أَصْبَحْتُ كُنْبِيًّا" یعنی میں بڑی عمر
والا ہو گیا ج کُنْبِيُّونٌ و كُنْبِيُّونٌ اور
كُنْبِيُّونٌ میں نون و قایہ ہے تاکہ ضمیر ظاہر ہو
جائے جس طرح ک حَضْرَبِيٌّ: میں فتح ظاہر
ہونے کے لئے نون لاتے ہیں۔
السَّكَّانُ: کسی شے کے ہونے کی جگہ ج
أَمَاكِينٌ وَأَمْكِنَةٌ وَأَمْكِنٌ (اخیر ناد رہے)
السَّكَّانَةُ: موضع۔ جگہ۔ مرتبہ۔ ج
مَكَانَاتُ.
السَّكِينُ: مرتبہ والا۔ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ
سَكِينٌ عِنْدَ فُلَانٍ" فلاں فلاں کے نزدیک
صاحب مرتبہ ہے۔ کہا جاتا ہے سَكُونٌ فِيهِ
یعنی موجود۔
سَكْوَةٌ (س) سَكْوَةٌ: تغیر ہونا۔
سَكَاةٌ يَكُوهُ كَوَاهُ الشَّيْءُ: مذہب سو گھبر کر یو معلوم
کرنا۔
سَكْوَةُ النَّارِ: آگ بھڑکانا۔
سَكْوَةٌ عَلَيْهِ الْأَمْرُ: پر اگندہ و پریشان ہونا۔
سَكْوَى فِي ذَارِهِ كُوَى: روشندان بنانا۔
سَكْوَى سَكْوِيًّا الرَّجُلُ: تنگ جگہ میں داخل
ہونا اور سٹپنا۔

السُّوُ وَالْحُوَّةُ وَالْحُوَّةُ: روشن دان۔ ج
سُوءٌ و سُوَى و سُوَاتٌ و سُوَاتٌ. كُوَى
النَّهْرُ: دریا کے نالے۔
سُوَى يَكُوَى كَيْفًا فُلَانًا: لوہے وغیرہ سے
داغ دینا۔ كُوَتَ الْعَقْرَبُ فُلَانًا: بچھو کا
ڈسنا۔ ڈنک مارنا۔ تم کہتے ہو "سُوَى نِسِي
بَعِينِهِ" یعنی اس نے مجھ کو تیز نظر سے دیکھا۔
أَكْوَى السُّوَاءُ: زبان سے تکلیف پہنچانا۔
سُوَى مَكَاوَةٌ: باہم گالی گلوچ کرنا۔
إِكْوَى: داغ لگنا۔ الزَّجْلُ: اپنے آپ
کو داغ دینا۔ اپنی آپ تعریف کرنا ان
صفات سے جوئی الحقیقت نہ ہوں۔
إِسْتَكْوَى فُلَانًا: داغ لگانے کو کہنا۔
الرَّجُلُ: داغ جانے کا وقت قریب ہونا۔
السُّوَى كُوَى: کا اسم مرہ۔ داغ لگانے کی
جگہ۔
السُّوَاءُ: اسم مبالغہ۔ بد زبان۔ بہت گالی
کہنے والا۔
السُّوَاءُ: داغ دینے کا لوبا۔ استری کرنے
کا لوبا۔ ج مَكَاوَةٌ.
السُّوَالَةُ وَالسُّوَالِيَّةُ: بکریوں پر نشان
لگانے کا آلہ۔
سُحَى: حرف تغلیل ہے۔ فعل مضارع پر داخل
ہوتا ہے اور تقدیر ان کی وجہ سے نصب دیتا
ہے جیسے "جَاءَ سَحَى يَسْتَلُّ" یعنی آیا تاکہ
پوچھے اور ما استفہامیہ پر داخل ہوتا ہے جیسے
"سَحَى جَسَتْ" یعنی تم کیوں آئے اس
صورت میں یہ حرف جر ہوگا۔
وقف کی صورت میں اس کے ساتھ ہاتھ مل
ہے تو کہا جاتا ہے سَحَى جَسَتْ لِحَاكِبِهَا جَا
ہے اور سَحَى جَسَتْ لِحَاكِبِهَا جَا ہوتا ہے
جیسے "سُحَى الفَتَى كَيْمَا يَصْرُو يَنْفَعُ":
اور ان صدریہ مقدرہ پر وجوہ داخل ہوتا ہے
جیسے "جَسَتْ سَحَى نَكْرَهْتِي" میں تمہارے
پاس اس لئے آیا کہ تم میرا اکرام کرو اور
اکثر اس کا استعمال لام کے بعد ہوتا ہے جیسے
جَسَتْ لِحَى نَكْرَهْتِي.

سَاءٌ يَكِي كَيْمَا عَنِ الْأَمْرِ: اعراض کرنا۔
السَّاءُ وَالسَّاءُ وَالسَّاءُ وَالسَّاءُ: بزدل۔
سَاءٌ السَّوَاءُ: برتن بھرنانا۔
السَّاءُ: سامان تیار کرنا اور آسان کرنا۔
سَاءٌ و سَاءٌ اور کبھی سَاءٌ و سَاءٌ
مکسوراً کہتے ہیں اور ان سے بات کا
کنایہ کیا جاتا ہے۔ تم کہتے ہو "سَاءَ فُلَانٌ
سَاءٌ و سَاءٌ" یعنی فلاں نے ایسا ایسا کہا
اور سَاءٌ سَاءٌ بغیر واو کے بھی استعمال
کرتے ہیں اور ان کا استعمال مکرر ہی ہوتا
ہے۔
سَاءٌ يَكِيحُ كَيْمَا السَّيْفُ فِيهِ: تلوار کا اثر
کرنا۔ کہا جاتا ہے "سَاءٌ فِيهِ
السَّيْفُ" یعنی تلوار نے اس پر کام نہیں کیا۔
سَاءٌ السَّاءُ: ہلاک کرنا۔
السَّاءُ: مونا (مذکر مؤنث) كَيْحُ السَّاءُ:
کھر در۔ مونا۔ جیسے کہا جاتا ہے يَوْمَ أَيَوْمِ.
السَّاءُ: سختی۔ مونا پانا۔
سَاءَةٌ يَكِيحُهُ كَيْمَا: مکر کرنا۔ فریب کرنا۔
مکر سکھانا۔ جنگ کرنا۔ برارادہ کرنا۔
السَّاءُ: چھماق کا آگ نکالنا۔ سَاءَةٌ لِفُلَانٍ:
جیلہ کرنا اور کہا جاتا ہے "فُلَانٌ يَكِيحُهُ أَمْرًا
مَا أَذْرِي مَا هُوَ" جبکہ وہ بھسلائے اور فریب
دے و "يَلْفَعُوا الْأَمْرَ الَّذِي كَادُوا" یعنی
جس امر کا وہ ارادہ کرتے تھے اس کو انہوں
نے حاصل کر لیا۔ سَاءٌ: جان دینا۔
السَّاءُ: تیار کرنا۔ الزَّجْلُ: قے کرنا۔
سَاءَةٌ مَكَايِدَةٌ: مکر و فریب کرنا۔
سَاءَةُ الرَّجُلَانِ: ایک دوسرے کے ساتھ
مکر کرنا۔
سَاءَةٌ كَيْمَا: جیلہ کرنا۔ مکر و فریب کرنا۔
السَّاءُ: موص۔ جیلہ۔ مکر۔ خباثت۔ لڑائی۔
قے ج کیناد کہا جاتا ہے "عَزَا فَلَمْ يَلْقَ
كَيْمَا" یعنی اس نے مقابلہ نہیں کیا "وَلَا
كَيْمَا وَلَا هَمًا" یعنی نہ تو سختی کرتا ہوں اور نہ
اس کا ارادہ۔
السَّاءُ: بہت مکر کرنے والا۔

المَكْبِيَّة: اسم ہے مکھا کا۔ مکھ۔ دھوکا۔
خباثت ج مکھاندہ کھد: کی نسبت جب
اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے تو اس سے مراد
مہلت و بیانی یا مکاروں کو ان کے فعل پر سزا
دی جی ہوتی ہے۔

مَكَارٌ يَكْبُرُ كِبَارًا الْفَرَسُ: دوڑنے میں دُوم
اٹھانا۔

اَكَارٌ عَلَيْهِ يَضْرِبُهُ: متوجہ ہونا۔

تَكَارِيْرًا: ایک دوسرے کو مارنا۔

الكِبِيرُ: لوہار کی بھٹی۔ ج اکتھار و کبیرہ۔

الكِبِيرُ: دوڑنے میں دُوم اٹھانے والا۔

مَكَّاسٌ يَكْبِسُ كَيْسًا وَكَيْسَانَةً الْغُلَامُ

: زریک ہونا۔ ذہین ہونا۔..... فَلَائِسًا: دانائی

میں غالب آنا۔..... الْجَارِيَّةُ: جماع کرنا۔

كَيْسَةٌ تَكْبِسُ: زریک و ذہین بنانا۔

مَكَّاسَةٌ مَكَّائِسَةٌ: دانائی میں مقابلہ کرنا۔

فَ: فِي السَّبْعِ: بیچنے میں مقابلہ کرنا۔

اَكَّاسٌ اِكَّاسَةٌ وَاَكْبِسُ اِكْبَاسًا: ذہین

اولاد والا ہونا۔

تَكْبِسُ: دانائی ظاہر کرنا۔ ج تکلف دانائیت۔

الكَيْسُ: مصل۔ عقل سمجھ دانائی زریکی۔

بَشْشُ: جماعت۔ کاموں میں شجیدگی۔

الْكَيْسَانَةُ: مصل۔ جو چیز نافع ہو اس کے

استخراج کی قدرت۔

الكَيْسُ: تجلی۔ بڑھ۔ ج اکتھاس و کبیسہ

: تجلی جس میں پچھ رہتا ہے۔

التَّكْبِيسُ: دانائیت۔ سمجھ دار۔ اچھی سمجھ بوجھ

والا۔ ج اکتھاس و کبیسہ مؤنث کبیسہ

ج کبیس

المَكْبِيسُ: سمجھ دار۔

كَيْسَانٌ: بغیر الف لام کے اسم ہے غدر کے

لئے۔ جب کوئی بے وفائی کرے تو کہا جاتا

ہے رَبِيبٌ فَلَانٌ كَيْسَانٌ.

الْاِكْبِيسُ: اسم تفضیل۔ مؤنث کبیسہ

و کبوسہ ج کبیس.

السَّمَكِيَّاسُ مِنَ النِّسَاءِ: وہ عورت جو ظن

بچوں کو بچنے۔ ج مکھائیس.

مَخَاصٌ يَكْبِصُ كَيْصًا وَكَيْوُضًا وَكَيْصَانًا
: کسی چیز سے عاجز ہونا..... الطَّعَامُ: تہا
کھانا۔

..... مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ: بہت کھانا پینا۔

الرَّجُلُ: تیز چلنا۔ کہا جاتا ہے

"مَرَّ يَكْبِصُ" جلدی کرنا ہو گا زراو "كَيْصَانًا

عِنْدَهُ مَاشِيْنَا" ہم نے اس کے پاس جو کچھ

جی میں آیا کھایا۔

مَكَايِصٌ مَكَايِصَةُ الْأَمْرِ أَوْ الْعَمَلِ: مشق

کرنا۔

الكَيْصُ: مصل۔ سخت بخیل۔ درشت خو۔

گھمٹے ہوئے بدن کا پستہ قد۔

كَيْبُصٌ وَكَيْبُصِيٌّ وَكَيْبُصِيٌّ: تہا

اترنے والا۔ تہا کھانے والا اور کسی کا خیال

نہ کرنے والا۔

الكَيْبُصُ وَالْكَيْبُصِيُّ مِنَ الرِّجَالِ: مضبوط

پٹھے والا۔

كَمَاعٌ يَكْبِعُ كَيْعًا وَكَيْعُوعَةً عَنْهُ: بزدل

ہونا۔ خائف ہونا۔ صفت کماع و کماوع ج

کماوعہ۔

مَكَّافٌ يَكْبِفُ كَيْفًا الشَّيْءُ: کاٹنا۔

كَيْفُ الشَّيْءِ: بکڑے بکڑے کرنا۔ کیفیت

معلومہ بنانا۔

تَكْبِفُ: بکڑے بکڑے کرنا۔ کسی کیفیت پر

ہونا۔

اِنْكَافٌ اِنْكَافًا الشَّيْءُ: کاٹنا۔

كَيْفٌ: اسم بہ معنی علی التعمہ ہے اور اکثر اس

کا استعمال استفہام کے لئے ہوتا ہے جیسے

"كَيْفٌ زَيْدٌ" اور کبھی شرط کے لئے آتا ہے

کبھی "مَا" لگاتے ہیں اور کبھی نہیں جیسے

كَيْفَمَا تَصْنَعُ أَصْنَعُ وَكَيْفَ تَصْنَعُ أَصْنَعُ

: اور کہا جاتا ہے "كَيْفَ لِي بَغْلَانٌ" اس کے

جواب میں تم کہتے ہو کُلُّ الْكَيْفِ: جر کے

ساتھ۔ مثل دوسرے معربیات کے اور فتح

کے ساتھ اپنی حالت پر باقی رہتے ہوئے۔

كَيْفِيَّةُ الشَّيْءِ: صفت۔ حالت ج

كَيْفِيَّاتٌ.

الكَيْفَةُ: کپڑے کا ٹکڑا جس سے کرتے کے
دامن کے اگلے حصہ میں پیوند لگائیں۔ ج
کبف.

الكَيْفَةُ: اثنا۔ ج الكَيْفِيَّاتُ اور تفسیر

كَيْفَةً وَكَيْفِيَّةً.

كَمَالٌ يَكْبِلُ كَيْلًا وَمَكِيلًا وَمَكَالًا وَكَيْلٌ

الْقَمُحُ وَغَيْرُهُ: ناپنا اور کبھی دو مفعول کی

طرف متعدي ہونا جیسے "كَمَلْتُ

زَيْدَ الطَّعَامِ" اور کبھی مفعول اول پر لام داخل

ہوتا ہے۔ جیسے كَمَلْتُ لِزَيْدِ الطَّعَامِ. كَمَالٌ

الذَّرَاهِمُ: تولا۔ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: اندازہ کرنا

اور کہا جاتا ہے "هَذَا طَعَامٌ لَا يَكْبِلُنِي" یعنی

اس پیمانہ کا قلم میرے لئے کافی نہیں۔

كَمَالٌ يَكْبِلُ كَيْلًا الزَّيْدُ: چھماق کا بے

آگ ہونا۔

كَيْلُ الْقَمُحِ: گیہوں ناپنا۔

الرَّجُلُ: بزدل ہونا۔

مَكَايِلُهُ مَكَايِلَةٌ: دوسرے کے قول یا فعل کی

مانند کہنا یا کرنا۔ گالی دینا اور بڑھ جانا اور کہا

جاتا ہے "مَكَايِلْتُ فُلَانًا" یعنی اس نے

میرے لئے اور میں نے اس کے لئے ناپا۔

دو نوں مَكَايِلَانٌ کہے جائیں گے "و مَكَايِلُ

الْفَرَسِ الْقَرَسُ فِي الْجَوِي" یعنی ایک

گھوڑے نے دوسرے گھوڑے کا دوڑنے

میں مقابلہ کیا اور کہا جاتا ہے "مَكَايِلْنَا هُمْ

صَاعًا بِصَاعٍ" یعنی ہم نے ان کو پورا پورا

بدلہ دیا۔

تَكْيِيلُ الرَّجُلِ: میدان جنگ میں آخری

صف میں کھڑا ہونا۔

تَكَايِلُ الرَّجُلَانِ: گالی اور کینہ میں ایک

دوسرے سے مقابلہ کرنا۔ ایک کا دوسرے

کے لئے ناپنا۔

اِكْتَالٌ اِكْتِيَالًا مِنْهُ وَعَلَيْهِ: اپنے لئے ناپنا۔

الْحَالُ: ایک ٹیڑھا سا آلہ ہے جو قلعہ کے

گرانے میں کام آتا ہے۔

الكَيْلُ: مصل۔ ناپنے کا آلہ۔ چنگاری جو

چھماق سے گرے۔ ج اکتھیل.



الَلَامُ: بنیادی حروف میں سے تینوں حرف ہے۔ یہ حرف ذلتیہ سے ہے۔

لَلَامُ: تین قسمیں ہیں:

(۱) عامل بعل جبر (۲) عامل بعل جزم (۳) غیر عامل۔

(۱) جارہ۔ اسم ظاہر اور ضمیر واحد تکلم کے ساتھ کسور ہوتا ہے جیسے لَزَيْدٌ وَلَيْسَ اور مَسْعَاثٌ بِنَا اور ضَارٌّ غَيْرٌ وَاحِدٌ تکلم کے ساتھ مفتوح جیسے يَا لِلّٰهِ وَلَكَ وَكُنَّا وَلَهُ۔

یہ اسم اور فعل دونوں پر داخل ہوتا ہے اسم پر داخل ہونے والے کئی معنوں میں آتا ہے۔

(۱) اختصاص جیسے "الْحِجَّةُ لِلْمُؤْمِنِ" جنت مومنین کے لئے خاص ہے۔

(۲) استحقاق جیسے "الْحِزْبَةُ لِلّٰهِ" عزت کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے۔

(۳) ملکیت جیسے ﴿لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾: اللہ ہی مالک ہے ان چیزوں کا جو آسمان و زمین میں ہیں۔

(۴) تبلیغ جیسے "قُلْتُ لَهُ وَقَسْرْتُ لَهُ" میں نے اس سے کہہ دیا میں نے اس سے بیان کر دیا۔

(۵) تعدیہ جیسے "مَا اَشَدَّ حَبَّ زَيْدٍ لِعُسْرٍ" زید کو عمرو سے کتنی شدید محبت ہے۔

(۶) قسم جیسے "لِلّٰهِ لَا فَعَلْنُ هَذَا" قسم اللہ کی میں اس کو ضرور کروں گا۔

(۷) صبر و رت جیسے "وُلِدَ الْاِنْسَانُ لِحَيٰوةٍ اَسْبَدِيَّةٍ" انسان ہمیشہ کی زندگی کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور اس کو لام عاقبت اور لام

المال بھی کہتے ہیں۔

(۸) تعلیل جیسے "وَيَوْمَ عَقَرْتُ لِلْعَذَارَى مَسْطِيحِي" اور اس دن کہ باکرہ چھو کر یوں کے لئے میں نے اپنی اونٹنی کو ذبح کیا۔

(۹) موافقت الیٰ جیسے "بِأَنَّ رَيْكَ اَوْحَى لَهَا"۔

(۱۰) موافقت علیٰ جیسے "بِخَيْرُونَ لِالَّذِيْنَ"۔

(۱۱) موافقت فیٰ جیسے "وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ"۔

(۱۲) بمعنی عند جیسے "كُتِبَ لِخَمْسِ خَلَوْنَ" پانچویں تاریخ کے گزرنے پر میں نے اس کو لکھا۔ اور اس کو لام تاریخ بھی کہتے ہیں۔

(۱۳) موافقت بعد جیسے "اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذُلُوْكَ الشَّمْسِ"۔

(۱۴) موافقت مع جیسے "فَلَمَّا تَفَرَّقَا كَانِيَا وَمَالِكَا لِيَطُوْرَ اجْتِمَاعٍ لَمْ نَبْ مَعَا"۔

(۱۵) موافقت من جیسے "سَمِعْتُ لَهٗ صُرَاخًا" میں نے اس سے چیخ سنی۔

(۱۶) موافقت عن جیسے "قَالَ الْاَيْدِيْنَ كَفَرُوْا وَاللَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانِ خَيْرًا مَّا نَسْتَقُوْنَا اِلَيْهِ"۔

(۱۷) زائدہ جیسے "ضَرَبْتُ لَزَيْدٍ" میں نے زید کو مارا اور فعل پر داخل ہونے والا۔ تقدیر ان سے فعل مضارع کو نصب دیتا ہے اور ان مع اپنے مدخول کے مصدر مجرور باللہ کی تاویل میں ہوتا ہے اور یہ یا تو تعلیل کے

لئے ہوتا ہے جیسے "جَعَلْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي" میں تیرے پاس اس لئے آیا کہ تو مجھے تعلیم دے اور یا تاکید نفی کے لئے اور اس صورت میں کان منعی اس سے پہلے آتا ہے اور اس کو لازم جمع دیکھتے ہیں جیسے "مَا سَاكِنٌ زَيْدٌ لِجُورِكَ" زید ہرگز تیری تعظیم کے لئے نہ تھا۔

(۲) لازم جازمہ اور وہ لام امر ہے اور اس کا نام لام طلب بھی ہے اور یہ کسور ہوا کرتا ہے جیسے "لِيَحْكُمَ اللّٰهُ" اور کبھی مفتوح بھی ہوتا ہے اور واؤ اور فا کے بعد اکثر ساکن ہوتا ہے جیسے "فَلَمَّا جِيئُوا اِلَيْهِ وَلِيُوْمِنُوْا بِسِي" اور ثم کے بعد بھی کبھی ساکن ہوتا ہے جیسے "ثُمَّ الْيَقْضُوْا"۔

(۳) غیر عاملہ اور یہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے اور وہ لام ابتداء ہے جیسے "لَزَيْدٌ قَائِمٌ وَاِنْ زَيْدًا لِقَائِمٍ"۔

اور لام جواب بعد لَوْ وَلَوْ لَوْ اَوْ قَسْمٌ جیسے "لَوْ عَذَّبْتُمْ لَعَذَّبْنَا وَلَوْ لَا زَيْدٌ لَهَلْ كُنَّا" و "وَاللّٰهُ لَزَيْدٌ كَرِيْمٌ" اور لام زائدہ جیسے "اَزَاكٌ لَشَايْمِي"۔

اور مجملہ انہیں غیر عاملہ کے وہ لام ہے جو بعد پر دلالت کرنے کے لئے اسمائے اشارہ کے ساتھ لاحق ہوتا ہے اور اصلاً یہ ساکن ہوتا ہے جیسے بَلْكَ میں مگر ذلک میں اجتماع ساکنین کی وجہ سے کسرہ دیا گیا ہے۔

لا: تین طرح پر ہے۔

(۱) نافیہ اور یہ چار طرح پر مستعمل ہے۔

<p>اللؤلؤئي واللؤلؤان: موتی کے رنگ کا۔ البناللة: موتی فروشی کا پیشہ۔ اللائلاء: بہت زیادہ خوشی۔ لائلاء البسراج: چراغ کی روشنی (.....) والاللال واللائلاء: موتی فروش۔</p>	<p>المُضَلَّب: سیدھا۔ اللاؤؤؤؤؤؤ: لا جو رد۔ ایک مشہور معدنی چیز ہے جو آرمینیا اور فارس کے پہاڑوں میں ہوتا ہے اور عمدہ وہ ہوتا ہے جو صاف شفاف نیلگوں مائل بہ سرخی یا سبزی ہو۔ زیورات میں لگا یا جاتا ہے اور بہت مفید چیز ہے۔</p>	<p>(الف) لئی جنس کے لئے۔ اس صورت میں اس کا اسم بنی برفتح ہوتا ہے اور مضاف اور شہ مضاف کی صورت میں منصوب ہوتا ہے جیسے "لاؤؤؤؤؤؤ فی الدار" گھر میں کوئی مرد نہیں۔ "ولاؤؤؤؤؤؤ حاضِر" مرد کا کوئی غلام حاضر نہیں۔</p>
<p>لام (ف) لاماً ولأم قَلِيصًا الرَّجُلُ: کینتکی کی طرف نسبت کرنا۔ السَّهْمُ: پر لگانا۔ السُّجُوحُ: زخم یا ندھنا (.....) لام (ف) لاماً ولأم قَلِيصًا ولأم الآمًا (الشيء) درست کرنا۔ صح کرنا اور باندھنا۔</p>	<p>اللاؤؤؤؤؤؤ: جولا جو رد کے رنگ کا ہو۔ لاؤؤؤؤؤؤ (ف) لاؤؤؤؤؤؤ: اصرار سے کسی کام کے لئے کہنا۔ لاؤؤؤؤؤؤ عَلِيٌّ فَلانٌ خَتِيٌّ کرنا۔ لاؤؤؤؤؤؤ بَسْهَمٌ: تیر مارنا۔ لاؤؤؤؤؤؤ فَلانٌ فِي سُرُورِهِ: بغیر ادھر ادھر التفات کے تیز بھاگنا۔ فَلانًا: دیر تک دیکھتے رہنا یہاں تک کہ نظر سے غائب ہو جائے..... هُ بِالْعَصَا: لاشی سے مارنا۔</p>	<p>(ب) بمعنی لَيْسَ: اس صورت میں اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے اور یہ نئی واحد کے لئے ہے جیسے "لاؤؤؤؤؤؤ قَانِجًا" مرد قائم نہیں اور لائی جنس اور لا بمعنی لَيْسَ میں فرق یہ ہے کہ جب تم لاؤؤؤؤؤؤ فِي الدارِ کہو گے تو اب اس کے بعد بِنَلِ الرَّجُلَيْنِ اَوْ رَجَالٍ کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ اس مثال میں جنس رجال کی نئی کر دی گئی ہے۔ بخلاف لاؤؤؤؤؤؤ فِي الدارِ کے کہ وہاں بِنَلِ الرَّجُلَيْنِ اَوْ رَجَالٍ کہنا صحیح ہوگا اس لئے کہ لا بمعنی لَيْسَ: صرف واحد کی لئی کرتا ہے ماسوا کی نہیں۔</p>
<p>لؤؤؤؤؤؤ (ك) لؤؤؤؤؤؤ ولامؤؤؤؤؤؤ ولامؤؤؤؤؤؤ: الاصل ہونا۔ بخیل ہونا۔ ذلیل ہونا۔ صفت لَيْسَمُ ج لَيْسَمٌ وُلؤؤؤؤؤؤ۔</p>	<p>لاؤؤؤؤؤؤ (ف) لاؤؤؤؤؤؤ: غمگین کرنا۔ دھتکارنا۔ مقابلہ کرنا..... فَلانًا فِي التَّقاضِي: تقاضا کرنے میں سختی و اصرار کرنا۔</p>	<p>(ج) لاناً في عطف کے لئے جیسے "جاء زَيْدٌ لا عمروً" زید آیا نہ کہ عمرو۔ (د) حرف جواب نفیض نم جیسے کوئی پوچھے "اقام زَيْدٌ" تو تم اس کے جواب میں کہو "لا"۔</p>
<p>لؤؤؤؤؤؤ (ك) لؤؤؤؤؤؤ ولامؤؤؤؤؤؤ ولامؤؤؤؤؤؤ: موافقت کرنا۔ لاءم لَيْسَمُ ج لَيْسَمٌ وُلؤؤؤؤؤؤ۔</p>	<p>لاؤؤؤؤؤؤ (ف) لاؤؤؤؤؤؤ: اچھی طرح سے کھانا۔</p>	<p>(۲) طلب ترک فعل کے لئے اور اس کا نام لاؤؤؤؤؤؤ ہے اور یہ صرف مضارع پر داخل ہوتا ہے اور اس کو جزم دیتا ہے جیسے "لاؤؤؤؤؤؤ مت"۔</p>
<p>لؤؤؤؤؤؤ (ك) لؤؤؤؤؤؤ ولامؤؤؤؤؤؤ ولامؤؤؤؤؤؤ: موافقت کرنا۔ لاءم لَيْسَمُ ج لَيْسَمٌ وُلؤؤؤؤؤؤ۔</p>	<p>لاؤؤؤؤؤؤ (ف) لاؤؤؤؤؤؤ: اچھی طرح سے کھانا۔</p>	<p>(۳) زائدہ۔ اور یہ تقویت معنی کے لئے ہوتا ہے حذف کر دینے سے خلل واقع نہیں ہوتا جیسے "ماؤؤؤؤؤؤ أن لاؤؤؤؤؤؤ" معنی "ماؤؤؤؤؤؤ أن لاؤؤؤؤؤؤ"۔</p>
<p>لؤؤؤؤؤؤ (ك) لؤؤؤؤؤؤ ولامؤؤؤؤؤؤ ولامؤؤؤؤؤؤ: موافقت کرنا۔ لاءم لَيْسَمُ ج لَيْسَمٌ وُلؤؤؤؤؤؤ۔</p>	<p>لاؤؤؤؤؤؤ (ف) لاؤؤؤؤؤؤ: اچھی طرح سے کھانا۔</p>	<p>لاؤؤؤؤؤؤ (ف) لاؤؤؤؤؤؤ: اچھی طرح سے کھانا۔</p>
<p>لؤؤؤؤؤؤ (ك) لؤؤؤؤؤؤ ولامؤؤؤؤؤؤ ولامؤؤؤؤؤؤ: موافقت کرنا۔ لاءم لَيْسَمُ ج لَيْسَمٌ وُلؤؤؤؤؤؤ۔</p>	<p>لاؤؤؤؤؤؤ (ف) لاؤؤؤؤؤؤ: اچھی طرح سے کھانا۔</p>	<p>لاؤؤؤؤؤؤ (ف) لاؤؤؤؤؤؤ: اچھی طرح سے کھانا۔</p>
<p>لؤؤؤؤؤؤ (ك) لؤؤؤؤؤؤ ولامؤؤؤؤؤؤ ولامؤؤؤؤؤؤ: موافقت کرنا۔ لاءم لَيْسَمُ ج لَيْسَمٌ وُلؤؤؤؤؤؤ۔</p>	<p>لاؤؤؤؤؤؤ (ف) لاؤؤؤؤؤؤ: اچھی طرح سے کھانا۔</p>	<p>لاؤؤؤؤؤؤ (ف) لاؤؤؤؤؤؤ: اچھی طرح سے کھانا۔</p>
<p>لؤؤؤؤؤؤ (ك) لؤؤؤؤؤؤ ولامؤؤؤؤؤؤ ولامؤؤؤؤؤؤ: موافقت کرنا۔ لاءم لَيْسَمُ ج لَيْسَمٌ وُلؤؤؤؤؤؤ۔</p>	<p>لاؤؤؤؤؤؤ (ف) لاؤؤؤؤؤؤ: اچھی طرح سے کھانا۔</p>	<p>لاؤؤؤؤؤؤ (ف) لاؤؤؤؤؤؤ: اچھی طرح سے کھانا۔</p>
<p>لؤؤؤؤؤؤ (ك) لؤؤؤؤؤؤ ولامؤؤؤؤؤؤ ولامؤؤؤؤؤؤ: موافقت کرنا۔ لاءم لَيْسَمُ ج لَيْسَمٌ وُلؤؤؤؤؤؤ۔</p>	<p>لاؤؤؤؤؤؤ (ف) لاؤؤؤؤؤؤ: اچھی طرح سے کھانا۔</p>	<p>لاؤؤؤؤؤؤ (ف) لاؤؤؤؤؤؤ: اچھی طرح سے کھانا۔</p>
<p>لؤؤؤؤؤؤ (ك) لؤؤؤؤؤؤ ولامؤؤؤؤؤؤ ولامؤؤؤؤؤؤ: موافقت کرنا۔ لاءم لَيْسَمُ ج لَيْسَمٌ وُلؤؤؤؤؤؤ۔</p>	<p>لاؤؤؤؤؤؤ (ف) لاؤؤؤؤؤؤ: اچھی طرح سے کھانا۔</p>	<p>لاؤؤؤؤؤؤ (ف) لاؤؤؤؤؤؤ: اچھی طرح سے کھانا۔</p>
<p>لؤؤؤؤؤؤ (ك) لؤؤؤؤؤؤ ولامؤؤؤؤؤؤ ولامؤؤؤؤؤؤ: موافقت کرنا۔ لاءم لَيْسَمُ ج لَيْسَمٌ وُلؤؤؤؤؤؤ۔</p>	<p>لاؤؤؤؤؤؤ (ف) لاؤؤؤؤؤؤ: اچھی طرح سے کھانا۔</p>	<p>لاؤؤؤؤؤؤ (ف) لاؤؤؤؤؤؤ: اچھی طرح سے کھانا۔</p>
<p>لؤؤؤؤؤؤ (ك) لؤؤؤؤؤؤ ولامؤؤؤؤؤؤ ولامؤؤؤؤؤؤ: موافقت کرنا۔ لاءم لَيْسَمُ ج لَيْسَمٌ وُلؤؤؤؤؤؤ۔</p>	<p>لاؤؤؤؤؤؤ (ف) لاؤؤؤؤؤؤ: اچھی طرح سے کھانا۔</p>	<p>لاؤؤؤؤؤؤ (ف) لاؤؤؤؤؤؤ: اچھی طرح سے کھانا۔</p>
<p>لؤؤؤؤؤؤ (ك) لؤؤؤؤؤؤ ولامؤؤؤؤؤؤ ولامؤؤؤؤؤؤ: موافقت کرنا۔ لاءم لَيْسَمُ ج لَيْسَمٌ وُلؤؤؤؤؤؤ۔</p>	<p>لاؤؤؤؤؤؤ (ف) لاؤؤؤؤؤؤ: اچھی طرح سے کھانا۔</p>	<p>لاؤؤؤؤؤؤ (ف) لاؤؤؤؤؤؤ: اچھی طرح سے کھانا۔</p>
<p>لؤؤؤؤؤؤ (ك) لؤؤؤؤؤؤ ولامؤؤؤؤؤؤ ولامؤؤؤؤؤؤ: موافقت کرنا۔ لاءم لَيْسَمُ ج لَيْسَمٌ وُلؤؤؤؤؤؤ۔</p>	<p>لاؤؤؤؤؤؤ (ف) لاؤؤؤؤؤؤ: اچھی طرح سے کھانا۔</p>	<p>لاؤؤؤؤؤؤ (ف) لاؤؤؤؤؤؤ: اچھی طرح سے کھانا۔</p>
<p>لؤؤؤؤؤؤ (ك) لؤؤؤؤؤؤ ولامؤؤؤؤؤؤ ولامؤؤؤؤؤؤ: موافقت کرنا۔ لاءم لَيْسَمُ ج لَيْسَمٌ وُلؤؤؤؤؤؤ۔</p>	<p>لاؤؤؤؤؤؤ (ف) لاؤؤؤؤؤؤ: اچھی طرح سے کھانا۔</p>	<p>لاؤؤؤؤؤؤ (ف) لاؤؤؤؤؤؤ: اچھی طرح سے کھانا۔</p>
<p>لؤؤؤؤؤؤ (ك) لؤؤؤؤؤؤ ولامؤؤؤؤؤؤ ولامؤؤؤؤؤؤ: موافقت کرنا۔ لاءم لَيْسَمُ ج لَيْسَمٌ وُلؤؤؤؤؤؤ۔</p>	<p>لاؤؤؤؤؤؤ (ف) لاؤؤؤؤؤؤ: اچھی طرح سے کھانا۔</p>	<p>لاؤؤؤؤؤؤ (ف) لاؤؤؤؤؤؤ: اچھی طرح سے کھانا۔</p>
<p>لؤؤؤؤؤؤ (ك) لؤؤؤؤؤؤ ولامؤؤؤؤؤؤ ولامؤؤؤؤؤؤ: موافقت کرنا۔ لاءم لَيْسَمُ ج لَيْسَمٌ وُلؤؤؤؤؤؤ۔</p>	<p>لاؤؤؤؤؤؤ (ف) لاؤؤؤؤؤؤ: اچھی طرح سے کھانا۔</p>	<p>لاؤؤؤؤؤؤ (ف) لاؤؤؤؤؤؤ: اچھی طرح سے کھانا۔</p>
<p>لؤؤؤؤؤؤ (ك) لؤؤؤؤؤؤ ولامؤؤؤؤؤؤ ولامؤؤؤؤؤؤ: موافقت کرنا۔ لاءم لَيْسَمُ ج لَيْسَمٌ وُلؤؤؤؤؤؤ۔</p>	<p>لاؤؤؤؤؤؤ (ف) لاؤؤؤؤؤؤ: اچھی طرح سے کھانا۔</p>	<p>لاؤؤؤؤؤؤ (ف) لاؤؤؤؤؤؤ: اچھی طرح سے کھانا۔</p>

اللائحة زره۔ ج لَامٌ وَلَوْمْ۔

السُّوْمَةُ: اوزار کاشت کاری۔ ہر نفیس چیز جس پر بخل کیا جائے۔ دوسروں کے فعل کی نقل کرنے والا۔

السُّيْمُ: کمینہ۔ بخیل۔ ذِفْيُ الاصل: بہت زیادہ حریص۔ ذَمِيلٌ۔ ج لِنَامٌ وَلَوْمَاءُ۔ السُّيْمُ: شہر۔

السَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ: کمینوں کی عذر خواہی کرنے والا۔ ندا کے موقع پر یَا سَلَامُ بمعنی یَا لَیْم کہا جاتا ہے۔

السَّلَامَانُ وَاللُّوْمَانُ وَلَمَّامَانُ: ذِبْيُ الطبع: اور یہ ندا کے لئے مخصوص ہے۔

السَّلَامُ: زره پینے والا۔ رَجُلٌ مُلَامٌ: کمینگی کی طرف منسوب مرد۔

السُّلَيْمُ: کمینہ۔ کمینوں کے پاس آنے جانے والا۔

لَا یُیْلَیْ لَایَا: دیر کرتا۔ رکنا۔

آلَا یُیْلَیْ: بختی میں پڑنا۔

السَّیِّئَاتُ السَّیِّئَاتُ: دیر کرتا۔ تنگ گزارن والا ہونا۔ مفلس ہونا۔

اللائی واللائی واللائی: بختی۔ رنج و تکلیف۔ اللائی: ڈھال۔ جنگی بیل۔ مؤنث لآء۔ ج الآء۔

لَبَّ (ن) لَبَّ بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔

السَّدَابَةُ: جانور کے سینہ پر تنگ باندھنا۔ اللُّوْزَةُ: بادام توڑ کر گرمی نکالنا۔ الزُّجْلُ: سینہ پر مارنا۔

لَبَّ (س) لَبَّاسًا وَلَبَّاسًا وَلَبَّاسًا: جھنڈ ہونا۔ لَبَّ يَلْبَسُ: بھی بیان کیا گیا ہے مگر یہ مضاعف میں نادر ہے۔

لَبَّ (ض س) لَبَّاسًا وَلَبَّاسًا: جھنڈ ہونا۔ اور لَبَّاسًا وَلَبَّاسًا: بھی آیا ہے مگر باب فَعْلٌ يَفْعَلُ: سے اس کے سوا کوئی نہیں اور حقیقت میں یہ باب تدخل سے ہے۔

لَبَّ تَلْبِيًّا الْحَبُّ: دانہ کا گودے دار ہونا۔ فَلَائِيَا: گریبان پکڑ کر کھینچنا۔ فُی السُّوْمَةُ: تردد کرنا۔

السُّوْمَةُ: تردد کرنا۔

السُّوْمَةُ: تردد کرنا۔

السُّوْمَةُ: تردد کرنا۔

الْأَمْرُ: لازم ہونا۔ السَّدَابَةُ: جانور کے

سینہ پر تنگ باندھنا۔ السُّوْمَةُ: زین کا تنگ بنانا۔ لَكَةُ الشَّيْءِ: پیش آنا اور کہا جاتا ہے "قَارَ فُلَانٌ تَلْبُ ذَارِي" فلاں کا مکان میرے مکان کے مقابل ہے۔

تَلْبٌ لِبَقَالٍ: مستعد ہونا۔ کر کنا۔ السُّوْمَةُ: ہر ایک کا دوسرے کے

گریبان کو پکڑ کر کھینچنا۔ السُّوْمَةُ: زیندا: عقل کی آزمائش کرنا۔

السُّوْمَةُ: قریبی مہربان۔ مؤنث لَبَّ ج لَبَّابٌ رَجُلٌ لَبَّ عَلَى الْأَمْرِ: کام سے

لازم رہنے والا مرد۔ لَبَّابٌ: مہربان ماں۔ السُّوْمَةُ: ہر چیز کا خالص۔ خالص عقل۔ جو

وہم وغیرہ کی آزمائش سے پاک ہو یا تیز فہمی۔ اس لئے لَبَّ: پر عقل کا اطلاق ہوگا مگر عقل پر لب کا اطلاق ضروری نہیں۔

السُّوْمَةُ: لب۔ زہر۔ ج النَّبَابُ وَالْبُ وَالْبُ (آخری جمع صرف اشعار میں آتی ہے)

السُّوْمَةُ مِنَ الْجَوْزِ وَاللُّوْزِ وَنَحْوِ ذَلِكَ: بادام اخروٹ وغیرہ کی گرمی۔ ج لَبُّوبٌ۔

السُّوْمَةُ لَبَّ: کا اسم مرہ۔ سینہ پر ہار پڑنے کی جگہ۔ شوہر کے ساتھ اچھی طرح گزار بسر کرنے والی عورت۔ ج لَبَّاتٌ۔

السُّوْمَةُ: بھس۔ سینہ پر ہار پڑنے کی جگہ۔ سینہ کا اوپر کا حصہ۔ باریک ریت۔ گھوڑے

وغیرہ کے سینہ پر باندھنے کا تنگ۔ ج النَّبَابُ اور کہا جاتا ہے "فُلَانٌ فِی لَبَّابٍ رَجُلٌ" فلاں آسودہ حال ہے۔

السُّوْمَةُ: دل۔ کہا جاتا ہے "هُوَ رَجُلٌ لَبَّابٌ" وہ کشادہ دل ہے۔

السُّوْمَةُ: تھوڑی گھاس۔ کہا جاتا ہے "لَبَّابٌ لَبَّابٌ" کوئی حرج نہیں۔

السُّوْمَةُ: ہر چیز کا خالص۔ برگزیدہ۔ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ لَبَّابٌ قَوْمِهِ وَهُمْ لَبَّابٌ قَوْمِهِمْ وَهِيَ لَبَّابٌ قَوْمِيًّا" فلاں اپنی قوم کا برگزیدہ ہے "حَسْبُ لَبَّابٍ وَعَيْشُ لَبَّابٍ" خالص

حسب۔ خالص زندگی۔ لَبَّابٌ الْجَوْزُ

السُّوْمَةُ: بھس۔ سینہ پر ہار پڑنے کی جگہ۔ سینہ کا اوپر کا حصہ۔ باریک ریت۔ گھوڑے

وغیرہ کے سینہ پر باندھنے کا تنگ۔ ج النَّبَابُ اور کہا جاتا ہے "فُلَانٌ فِی لَبَّابٍ رَجُلٌ" فلاں آسودہ حال ہے۔

السُّوْمَةُ: دل۔ کہا جاتا ہے "هُوَ رَجُلٌ لَبَّابٌ" وہ کشادہ دل ہے۔

وَنَحْوِهِ: اخروٹ وغیرہ کی گرمی۔

السُّوْمَةُ: لباس جو لڑائی کے وقت کپڑوں پر پہنا جائے۔

لَبَّابٌ الْحُقُولُ: کھیتی کے درمیان پھینے والا پودا جو کھیتی کو نقصان دیتا ہے۔

السُّوْمَةُ: جھنڈ۔ ج النَّبَابُ مؤنث لَبَّابَةٌ ج لَبَّابَاتٌ وَنَبَّابٌ: کام سے

چھٹے رہنے والا۔ سستی نہ کرنے والا انسان۔ السُّوْمَةُ: دل کی چند رنگوں کا نام جو مرکز لطف و

مہربانی میں کہا جاتا ہے "أَنَا أَحْبَبُكَ مِنْ نَسَائِطِ الْبَيْتِ" میں تجھ سے بدل سے محبت کرتا ہوں۔ اور السُّوْمَةُ: کی جمع الالباب: اور

تفسیر لَبَّابٌ۔ السُّوْمَةُ: بھس۔ گریبان ج تَلْبِيْبٌ

السُّوْمَةُ: بھس۔ گریبان ج تَلْبِيْبٌ

السُّوْمَةُ: بھس۔ گریبان ج تَلْبِيْبٌ

السُّوْمَةُ: بھس۔ گریبان ج تَلْبِيْبٌ

السُّوْمَةُ: بھس۔ گریبان ج تَلْبِيْبٌ

السُّوْمَةُ: بھس۔ گریبان ج تَلْبِيْبٌ

السُّوْمَةُ: بھس۔ گریبان ج تَلْبِيْبٌ

السُّوْمَةُ: بھس۔ گریبان ج تَلْبِيْبٌ

السُّوْمَةُ: بھس۔ گریبان ج تَلْبِيْبٌ

السُّوْمَةُ: بھس۔ گریبان ج تَلْبِيْبٌ

السُّوْمَةُ: بھس۔ گریبان ج تَلْبِيْبٌ

السُّوْمَةُ: بھس۔ گریبان ج تَلْبِيْبٌ

السُّوْمَةُ: بھس۔ گریبان ج تَلْبِيْبٌ

السُّوْمَةُ: بھس۔ گریبان ج تَلْبِيْبٌ

الْبَيْتِ الشَّاةُ: بکری سے پیوی دوہنا..... اللبنا
: پیوی پینا..... (وَأَسْتَلْبِ) الْجَدَى الشَّاةُ :
پیوی پینا۔
الْبَيْتِ: پیوی۔ کھیں۔

الْبَيْتَةُ وَالْبَيْتَاءُ وَالْبَيْوَةُ وَالْبَيْوَةُ
وَالْبَيْوَةُ وَالْبَيْوَةُ وَالْبَيْوَةُ وَالْبَيْوَةُ
وَالْبَيْوَةُ: شیرنی۔ ح لَبَاتٌ وَلَبَا وَلَبِوَاءُ
وَلَبِوَاتٌ.

لَبَتْ (ن) لَبْتًا يَلْبُدُ: ہاتھ اٹھنا۔ مروڑنا
..... فَلَتَا: کسی کے سینے پر لٹک کر پر لٹکی
سے مارنا۔

لَبَتْ (س) لَبْتًا وَلَبْتًا وَلَبْتًا وَلَبْتًا
وَلَبْتًا وَلَبْتًا وَلَبْتًا بِالْمَكَانِ: ٹھہرنا۔
اقامت کرنا اور کہا جاتا ہے "مَالَيْتُ أَنْ
فَعَلْتُ كَذَا" اس نے ایسا کرنے میں تاخیر
نہیں کی۔

لَبْتُ وَالْبَيْتُ فَلَتَا فِي الْمَكَانِ: ٹھہرنا۔
مقیم کرانا۔
لَبْتُ بِالْمَكَانِ: ٹھہرنا۔

اسْتَلَبْتُ: سُت پانا۔ سُت سمجھنا۔
الْبَابُ وَالْبَيْتُ بِالْمَكَانِ: اقامت
گزیں۔ ٹھہرنے والا۔
الْبَيْتَةُ: تھوڑی دیر۔

الْبَيْتَةُ: مصل۔ مختلف قبائل کی جماعت۔ ح
لَبَانَتْ.

لَبِجَ (ن) لَبِجًا بِهِ الْأَرْضُ: زمین پر پلک
دینا اور پچھاڑ دینا اور کہا جاتا ہے "لَبِجَ
بِالزُّجْلِ أَوْ الْبَعِيرِ" یعنی مرض یا ٹھکن کی وجہ
سے گر پڑنا۔ مَصْتٌ لَبِجٌ هُ بِالْعَصَا
: لٹکی سے مارنا۔

الْبُجَّةُ وَالْبُجَّةُ: شاخ دار لوہا جس سے
بھیرے کو شکار کیا جاتا ہے۔ ح لَبِجٌ
وَلَبِجٌ.

الْبَبَاجُ: بے وقوف۔ کزور عقل والا۔

لَبِجَ (س) لَبِجًا وَلَبِجًا: بالزُّجْلِ
: بڑھا ہونا۔

اللَّبْحُ: بوڑھا۔ عمر رسیدہ۔ بہادری۔

لَبِخَ (ف) لَبِخًا فَلَانًا: مارنا۔ گالی دینا۔
قُلْ كَرْنَا الزُّجْلُ: پکڑنے کے لئے جیل۔
کرنا الشُّيْ: لیتا لَبُوخًا جَسَدُهُ
: بہت گوشت والا ہونا۔ مَصْتٌ لَبِخٌ.

لَابِخُهُ لَبَاخًا وَمَلَابِخُهُ: باہم ٹھانچ مارنا۔
باہم مار پیٹ کرنا۔
تَلَبَّخَ: منگ لگانا۔

السَّبِخُ: ایک درخت ہے جس کے پتے
اخروٹ کے پتوں کے مانند ہوتے ہیں۔
واحد لَبِخَةٌ.

السَّبِخُ: زیادہ گوشت والا۔
السَّبِخَةُ: منگ کا ناف۔

لَبَدٌ (ن) لَبْدًا بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔
الْقَوْمُ بِالرُّجْلِ: لازم ہونا بِالشُّيْ:
چٹنا الشُّيْ بِالشُّيْ: گتھ جانا الْقَوْبُ
: کپڑے میں پیوند لگانا۔

لَبَدٌ (س) لَبْدًا بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔
لَبَدٌ (ض) لَبْدًا الصُّوفُ: اون دھنک کر
پانی میں تر کر کے نمہ بنانا
لَبَدٌ الصُّوفُ: بمعنی لَبْدَةٌ الْكِنَاءُ: پیوند
لگانا الشُّيْ: نمہ جیسا ہونا الْمَطْرُ
الْأَرْضُ: تر کرنا شَعْرُهُ: لیس دار چیز یا
گوند سے چکانا۔

الْبَدُّ بِالْأَرْضِ: چٹ جانا بِالْمَكَانِ:
اقامت کرنا السَّرُوحُ: زین کے لئے
نمہ بنانا السَّرُوحُ: ٹھوڑے پر نمہ
باندھنا الشُّيْ بِالشُّيْ: چکانا الزُّجْلُ
رَأْسُهُ: دروازہ میں داخل ہونے کے وقت
سر جھکانا الخُرُقُ: پیوند لگانا بَصْرُ
الْمُضَلِّي: سجدہ گاہ میں نگاہ ہونا۔

تَلَبَّدَ الصُّوفُ وَنَحْوَهُ: نمہ بنانا الطَّائِرُ
بِالْأَرْضِ: پرندہ کا زمین پر بیٹھنا۔ الرُّجْلُ:
دیکھ کر معلوم کرنا۔ تَلَبَّدَتِ الْأَرْضُ
بِالْمَطْرِ: بارش کی وجہ سے زمین کا ٹھوس
ہونا۔

الْبَيْدُ وَالْمَلْبُدُ: آہل میں چٹنا۔
..... الشَّجْرَةُ: بہت پتوں والا ہونا۔

الْبَيْدُ: مصل۔ نمہ۔ کہا جاتا ہے "مَسَالَهُ سَبْدٌ
وَلَا لَبْدٌ" اس کے پاس نہ بال ہے نہ اون
یعنی نہ قلیل ہے نہ کثیر۔
الْبَيْدُ: نہ بہت شدہ بال۔
الْبَيْدُ وَالْمَلْبُدُ: جو سفر نہ کرے اور ہمیشہ گھری
میں رہے۔ کہا جاتا ہے "مَقَالَ لَبْدٌ" یعنی بہت
مال گویا کہ ایک پر ایک جمع ہے۔ اَبُو لَبْدٍ:
شیر۔

الْبَيْدُ: بال یا اون نہ بہت شدہ۔ اون کا پھوننا۔
نمہ ح۔ لَبْسُودٌ وَالْبَادُ: کہا جاتا ہے "فَلَانٌ
لَا يَسْحَفُ لَبْدُهُ" فلاں کا عرق گیر خشک نہیں
ہوتا یعنی وہ ہمیشہ سفر میں رہتا ہے۔
الْبَيْدَةُ: اون کی ایک چیز جو سر پر پہنی جاتی
ہے یا نمہ کی تبا۔
الْبَيْدَةُ: نہ بہت ہوا بال یا اون۔
کپڑے کا ٹکڑا جس سے کرتے کے سامنے کا
پیوند لگایا جائے۔ ران کا اندرونی حصہ۔
ٹڈی۔
الْبَيْدَةُ: نہ بہت ہوا بال یا اون۔
السَّبْدَةُ وَالْبَيْدَةُ: شیر کے ایل۔ ح لَبْدٌ
وَلَبْدٌ وَالْبَادُ وَالْبُودُ.
الْبَيْدُ: فا۔ شیر۔ کہا جاتا ہے "مَسَالٌ لَابِدَةٌ"
یعنی بہت مال۔
الْبَيْدُ: نمہ سے بنانے والا۔
الْمَلْبُودُ: چھڑی۔
السَّبْدُ: تورہ۔ چھوٹا بورا وَالْبَيْدَةُ
وَالْبَيْدَةُ وَالْمَلْبُدُ: ایک قسم کا پرندہ۔ جو
بغیر اڑانے نہیں اڑتا اور ہر وقت زمین ہی
سے چمٹا رہتا ہے۔ الْبَيْدِيُّ: جمع شدہ لوگ۔
الْمَلْبُودُ: فا۔ زمین پر پلک دینے والا۔
کہا جاتا ہے "فَلَانٌ مَلْبُودٌ" ای فقیر مذق
یعنی بہت زیادہ فقیر ہے۔ شیر۔ زمین سے
چٹنے والا۔
الْمَلْبُودُ وَالْمَلْبُودُ: پیوند لگانا ہوا
تَبَسُّ مَلْبُودٌ: ٹھوس گوشت والا بکرا۔
لَبْسُودٌ (ض) لَبْسُودًا: بہت سخت مارنا۔ لَبْسُ
الشُّيْ: بہت تیز کھانا۔ توڑنا فَلَانًا: عیب

لگانا۔ برالقب دینا۔ پیٹھ پر ہاتھ سے مارنا۔
لَبَسَ (ض) لَبَسًا عَلَيْهِ الْأَمْرُ: مشترکہ
دینا۔ گڑ بڑ کر دینا۔

لَبَسَهُ (ن) لَبَسًا: شہ میں ڈال دینا۔ تم
کہتے ہو "لَبَسَنِي" یعنی اس نے ایسا کر دیا کہ
میں اپنے معاملہ میں شہ میں پڑ گیا۔

لَبَسَ (س) لَبَسًا الثَّوْبَ: کپڑا پہننا۔ فَلَاتَا
: مدت تک کسی کی معاشرت و مصاحبت سے
فائدہ اٹھانا۔ فَلَاتَا عَلَيَّ صَافِيَهُ: برداشت
کرنا۔ قبول کرنا۔ اور کہا جاتا ہے "لَبَسْتُ
عَلَيَّ ذَلِكَ أَدْنَى" یعنی میں تکلف بہرا
بن گیا اور میں نے گفتگو نہیں کی "وَلَبَسْتُ
بِفُلَانٍ أَدْنَى" یعنی میں نے اس سے تغافل
برتا۔

لَبَسَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ: غلط ملط کرنا۔ الشئ: عیب
چھپانا۔

الْبَسَةُ: چھپانا۔ پوشیدہ کرنا۔ ف الثَّوْبُ:
کپڑا پہننا۔

لَابَسَهُ: ملانا۔ اندرونی حالت معلوم کرنا
لَابَسَ الْأَمْرُ: ہمیشہ کرنا۔

تَلَبَسَ بِالْأَمْرِ وَبِالثَّوْبِ: کام میں لگنا۔ کپڑا
پہننا۔ الطَّعَامُ بِالْيَدِ: چیکنا۔ تَلَبَسَ بِهِ
الْأَمْرُ: تعلق ہونا۔ عَلَى الْأَمْرِ: مشترکہ ہونا۔
دشوار ہونا۔ کہا جاتا ہے "تَلَبَسَ حَيْبَةُ
بِذِمِّي" اس کی محبت میرے خون میں پیوست
ہوگئی "وَتَلَبَسَ لَبَسًا حَسَنًا" عمدہ لباس
پہننا۔

الْبَسَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ: مشترکہ ہونا۔ دشوار ہونا۔
وَالْبَسَ بِعَمَلٍ كَذَا: ملانا۔ اَلْبَسْتُ بِهِ
الْحَيْلَ: لائق ہونا۔

الْبَسَ وَالْبَسَ وَالْبَسَةَ وَالْبَسَةَ وَالْبَسَةَ
وَالْبَسَةَ وَالْبَسَةَ: شہ۔ دشواری۔ عدم
وضاحت۔ الْبَسَ وَالْبَسَ: تار کی کاملنا۔
الْبَسَ: ایک قسم کا کپڑا۔

الْبَسَ: لباس۔ ج لَبَسَ: لَبَسَ الْهَوْدَجِ
وَسُخُوهُ: بودہ کا کپڑا کھال اور گوشت کے
درمیان جو باریک سی جھلی ہوتی ہے اس پر

بھی لَبَسَ: کا اطلاق ہوتا ہے۔

الْبَسَ: جو کپڑا پہننا جاع لَبَسَ وَالْبَسَةَ
: شوہر و بیوی۔ مخط ہونا۔ اجتماع۔ لَبَسَ
الزَّهْرُ: کئی کا غلاف۔ لَبَسَ الثَّقَوِيُّ: حیا۔
سز عورت وغیرہ۔

الْبَسَةُ: ایک قسم کا کپڑا۔ لَبَسَ: اسم نوع۔
الْبَسُ: لباس۔ زرہ۔ بہت پہننے والا۔

الْبَسَ: کپڑا۔ قَمِيصٌ لَبَسَ: بہت پہننے
سے پرانا کرنا۔ مَشَلٌ وَظَمِرٌ۔

الْقَابِسُ: مصل۔ کتمان حقیقت۔ اخفاء۔
حقیقت۔

الْبَسَ: بہت لباس پہننے والا۔ بہت غلط ملط
کرنے والا۔

الْمَلْبَسُ وَالْمَلْبَسُ: لباس۔ ج غَلَابِسُ
الْمَلْبَسِ: رات۔

الْمَلْبَسُ: مفتح۔ عِنْدَ الْمُؤَلِّدِينَ: باوام
وغیرہ جس پر شکر چڑھائی گئی ہو۔

لَبَسَ: سفر پر جانے کے لئے بے ترتیب
سامان جمع کرنا۔

لَبَطَ (ض ن) لَبَطًا بِفُلَانٍ الْأَرْضَ: زمین
پر پٹک دینا۔ پچھاڑ دینا۔ لَبَطَ بِهِ: گرایا
جانا۔ کسی مرض یا کسی اچانک معاملہ کے پیش
آجانے کی وجہ سے گر پڑنا۔ زکام والا ہونا۔

لَبَطَ (ض) لَبَطًا وَتَلَبَطَ وَالتَّبَطُّ: البَعِيرُ
او البَعْلُ: اونٹ یا خیر کا زمین پر لات مارنا
دوڑنے میں لات پٹکانا۔ التَّبَطُّ وَالتَّبَطُّ
الزَّجَلُ: زمین پر لوٹنا۔ مضطرب ہونا۔ متحیر
ہونا۔ فِی الْأَمْرِ: کوشش کرنا۔ حیلہ کرنا۔

الْبَطَّةُ: لَبَطَ: کا اسم مرثہ۔ زکام۔
الْبَطَّةُ: الْبَطَطُ: کا اسم۔ لُكْرٌ: کی دوڑ۔

الْأَبَطُ: کھالیں۔ و احد لَبَطَ.
الْمَلْبُوطُ: مفتح۔ زَجَلٌ مَلْبُوطٌ بِهِ: اپنے کام
میں متحیر مرد۔

لَبَعَ: لالچ کے ساتھ کھانا۔

لَبِقَ (ن) لَبِقًا وَلَبِقَ الشَّيْءَ: نرم کرنا۔

لَبِقَ (س) لَبِقًا وَلَبِقَ (ك) لَبِاقَةً: حاذق
ہونا۔ ذہین ہونا۔ نرم اخلاق والا ہونا۔ لَبِقَ

وَلَبِقَ الثَّوْبَ وَنُحُوهُ بِفُلَانٍ: چیکنا۔
السَّبِقُ وَالسَّبِقُ: نرم اخلاق والا۔ پاکیزہ
اخلاق والا۔ ذکی۔ ذہین۔ مَوْتٌ لَبِيقَةٌ
وَلَبِيقَةٌ.

لَبِكَ (ن) لَبِكًا وَلَبِكَ الْأَمْرُ: الشئ
: ملانا۔ الشَّيْءُ: کھانے کے لئے جمع کرنا۔

القَوْمُ بَيْنَ الشَّيْءِ: بکریوں کو ملادینا۔
لَبِكَ (س) لَبِكًا وَلَبِكَ وَتَلَبَكَ
الْأَمْرُ: گڑ بڑ ہونا۔ مشترکہ ہونا۔

الْبِكَ: فحش کلامی کرنا۔ كُنْظُوهُ: غلطی کرنا۔
الْبِكَ وَالْبِكَ: مخلوط چیز۔ أَمْرٌ لَبِكَ
وَلَبِيكٌ: گڑ بڑ معاملہ۔ مشترکہ معاملہ۔

الْبِكَ: شریک کا ایک لقمہ۔ شریک کا ایک حصہ۔
السَّائِكَةُ وَالْبَيْكَةُ: جماعت۔ کہا جاتا ہے
"وَقَعَ فِي لَبِكَةٍ وَلَبِيكَةٍ" یعنی وہ گڑ بڑ میں پڑ
گیا۔

لَبَسَتْ الْمَرْأَةُ بَوْلِدَهَا: عورت کا بچے سے
لاڈیلار کرنا۔ مہربان ہونا۔ الشَّاءُ
بَوْلِدَهَا بَعْدَ الْوَضْعِ: بکری کا بچے کو چننے
کے بعد ہونٹوں سے چاٹنا اور مہربان ہونا۔

لَبَسَ الْقَوْمُ: قوم کا متفرق و پراگندہ ہونا۔
السَّبَبُ وَاللَّبَبُ: اپنے لوگوں سے مہربانی
کرنے والا۔ اپنے پڑوسیوں سے اچھا
سلوک کرنے والا۔

لَبَسَ الْعَنَمِ: بکریوں کا شور اور ان کی
آواز۔

السَّبَلَابُ: عشق بچہ (ایک پھول دار تیل جو
جھاڑوں پر پھلتی ہے) اس کا پتہ لوبیا کے پتہ
کے مشابہ ہوتا ہے)

لَبِنَ (ن ض) لَبِنًا الرَّجُلُ: دودھ پلانا۔
فَلَاتَا بِالْعَصَا: سخت لالچی مارنا (لَبِنَ ض)
لَبِنًا الرَّجُلُ: بہت کھانا۔

لَبِنَ (س) لَبِنًا الرَّجُلُ: بکری کی وجہ سے درد
گردن والا ہونا۔ الشَّاءُ: بکری کا دودھ
والی ہونا۔

الْبَسَ الْقَوْمُ: بہت دودھ والی ہونا۔ صفت
لَابِتُونٌ وَمَلْبُونٌ: الناقَةُ: تھن میں دودھ

۹

۹

أَرْتَا..... الرَّجُلُ: تَلْبِينُهُ: بَنَانًا (دیکھئے تَلْبِينُهُ)

لَبْسٌ: اِبْنٌ: فَيْصَلُ كَرْنِ كِ لِي جَمَلِ بَنَانًا..... الشَّيْءُ: جُكُورٌ بَنَانًا.

تَلْبِنُ الرَّجُلُ: دِيرٌ كَرْتَا.

إِلْتَبِنُ: اِبْنًا وَدُودُهُ جُوسْنَا.

اِسْتَلْبِنُ: دُودُهُ طَلَبٌ كَرْتَا.

الْتَبِنُ: مَعْصٌ - دُودُهُ جِ الْبَانُ: تَهَوَّرُ عِ سِ كُولَيْتِنَةُ كَيْتَبِي هِي - لَبْنُ الشَّجَرَةِ: دُرْحَتُ كَا دُودُهُ -

الْبَسِنُ وَالْبِسِنُ وَالْبَبِنُ: كَيْجِي اِسْتَبِنُ - وَاحِدٌ لَيْتِنَةُ.

الْبَبِنُ وَالْلَبُونُ: دُودُهُ كَا خَوَامِشُ مَنَدٌ - دُودُهُ پِينِي وَالْا - لَبْنُ الْقَوْبِيصِ: كَرْتِي كِي كَلِي -

مَخْلِصٌ لَبْنٌ: فَيْصَلُ كِي جَمَلِ - اللَّيْنَةُ وَاللَّبِيْنَةُ: دُودُهُ وَالِي -

الْبَبَانُ: سِيْرِيَادُوْنُوں پِسْتَانِ كَا دَرْمِيَانِ اُور اَكْثَرُ اِسْتِعْمَالُ كَهُوْرِي وَغِيْرِهِ كِي سِيْنِي كِي لِي هُوْتَا هِي -

الْبَبَانُ: دُودُهُ پِلَانَا - كِهَا جَاتَا هِي "هُوَ اَخُوهُ بِلَبَانِ اَمَّهْ اُور بَلْبِنِ اَمَّهْ: نَمِيں كِهَا جَاتَا هِي -

الْبَبَانُ: مَسْمُورٌ - كَنْدَرٌ - اِيكِي قِصْمُ كَا گُونْدُ جُو دُوهوني كِي كَام آتَا هِي -

الْبَبَانَةُ: حَاجَتٌ - ضَرْوَرَتٌ - جِ لَبَانَاتِ وَلَبَانِ.

لَبْنَانٌ: مَلِكٌ شَامُ كَا اِيكِي پِهَارُ جِمْسِ كِي چُونِي پَرِ هِيْمِيْشَ بَرَفِ رَهْتِي هِي -

الْبَابِسِنُ: قَا - دُودُهُ وَالْا - زِيَادَهُ دُودُهُ وَالْا دُودُهُ پِلَانِي اُولَا - مَوْنَتُ لَابِنَةُ جِ لَابِنَاتِ لَوَابِنِ. اللَوَابِنُ: تَبِيْحِنُ -

الْبَبُونُ وَالْبَبُونَةُ: دُودُهُ وَالِي - جِ لَبَانِ وِلْسِنُ وَلَبْنُ وَلَبْنُ وَلَبْنَانُ: كِهَا جَاتَا هِي "سَخْمٌ لَبْنٌ غَنَمِكُ" تَهْمَارِي بَكْرِيُوں مِيں كَتْنِي دُودُهُ وَالِي هِيں -

الْبَبِينُ: دُودُهُ سِي پَرُورِشِ پَايَا هُوَا - دُودُ هَارُ - مَوْنَتُ لَبِيْنَةُ: كَرْتِي كِي كَلِي -

الْبَبِيْنَةُ: دُودُهُ سِي پَرُورِشِ پَايَا هُوَا - دُودُ هَارُ - مَوْنَتُ لَبِيْنَةُ: كَرْتِي كِي كَلِي -

الْبَبِيْنَةُ: اِيكِي دُرْحَتُ هِي جِمْسِ سِي شَهْدِكِي

مانند دودھ لکھتا ہے اور کبھی اس سے دھونی کا کام لیا جاتا ہے عَمَلُ اللَّبْنِي لَبْنِي: دُرْحَتُ كَا دُودُهُ -

اللَّبَانُ وَالمَلْبِنُ: اِسْتَبِنُ بِنَانِي وَالْا -

التَّلْبِينُ وَالتَّلْبِيْنَةُ: بَهْوَسُ دُودُهُ شَهْدِ سِي بِنَا هُوَا حَرِيْرَهُ -

الجَلْبِنُ: دُودُهُ صَافٌ كَرْنِي كَا چَهْنَا - دُودُهُ دُوهِنِي كَا بَرْتِنُ - اِبْنُ بِنَانِي كَا سَا نَجْمُ - كَيْجِي اِسْتَبِنُوں كُو جِمْسِ مِيں رَهْ كَر اِيكِي جگہ سِي دُوسْرِي جگہ لِي جَا مِيں -

المَلْبُونُ: دُودُهُ سِي پَرُورِشِ پَايَا هُوَا - دُودُهُ پِينِي سِي جِمْسِ كُو نَشْرُ جِيْسَا هُوَا -

المَلْبِيْنَةُ: چِيچِي - عَشْبُ مَلْبِيْنَةُ: زِيَادَهُ دُودُهُ وَالِي كِهَا سِ -

الْمَبْوَةُ وَالمَبْوَةُ: شِيْرِنِي اِسْ كُولَيْبُوْتُو اُور لَبَانَةُ اُور لَبَانَةُ كِهِي كِهَا جَاتَا هِي لَبَانَا كِي مَادِهْ مِيں ذِكْرُ هُو چُكَا هِي)

لَبِي يَلْبِي لَبَانًا مِّنَ الطَّعَامِ: بَهْتُ كِهَا تَا - لَبِي تَلْبِيْنَةُ الرَّجُلِ: جُوابُ وِيَا - لَبِيْنِكُ: كِهْمَا - كِهَا جَاتَا هِي "بِيْنَهُمْ المَلْبِيْنَةُ" اِن كِي دَرْمِيَانِ اِيكِي مَواقِفَتُ هِي كِي اِن مِيں سِي كُوْنِي اِنِي رَا زُو دُوسْرِي سِي نَمِيں چَهپَا تَا -

لَبْتُ (ن) لَبْنَا: الشَّيْءُ: كُوْنَا - رِيْزُهُ رِيْزُهُ كَرْتَا - پِيْسَا - يَانِدُ صِنَا..... المَسْوِيْقُ: سَتُو كُو پَانِي سِي تَر كَرْتَا - كِهِي مَلَانَا..... المَسَاءُ النَّبَاتِ وَغِيْرُهَا: تَر كَرْتَا - صِفْتُ لَابْتُ.

لَبْتُ فَلَانٌ بِفَلَانٍ: چِيْمَنَا - اَلْتُ الطَّيَابِرُ: پَرِنْدَهْ كَا اِنِي سِرُ كُو پَرُوں مِيں چَهپَا تَا -

الْلَاثُ وَاللَاثُ: زِمَانَةُ جَابِلِيْتِ كِي اِيكِي بُتُ كَا تَامُ -

الْلَاثُ: مَعْصِي - كِهَا بِيْزِي - بَرَا كِهَا بَرَا - السَّلَاتُ: دُرْحَتُ كِي چَهْمَالُ جُو بَارِيكِي كِي جَا ئِي - كِهَا جَاتَا هِي "مَمَا اَنْقَى مِيْنِي المَضْرُضُ اَلْا لَبَانَا" مَرَضُ نِي جِهْ مِيں سِوَا ئِي خَشْكُ كِهْمَالُ كِي كُچھ نَمِيں چَهپُو آ -

لَبْنَا (ف) لَبْنَا: آ لُودُهُ كَرْتَا..... الشَّيْءُ: چَهپَا رْتَا -

تَلْبَعُ بالشَّيْءِ: آ لُودُهُ هُوْتَا - لَبْنَا (ن) لَبْنَا: لَبْنَا بِبِيْدِهِ: مَكَا مَارْتَا -

لَبْنَا (ن) لَبْنَا: لَبْنَا بِبِيْدِهِ: مَكَا مَارْتَا - لَبْنَا (ن) لَبْنَا: لَبْنَا بِبِيْدِهِ: مَكَا مَارْتَا -

لَبْنَا (ف) لَبْنَا: لَبْنَا بِبِيْدِهِ: مَكَا مَارْتَا - لَبْنَا (ف) لَبْنَا: لَبْنَا بِبِيْدِهِ: مَكَا مَارْتَا -

لَبْنَا (ف) لَبْنَا: لَبْنَا بِبِيْدِهِ: مَكَا مَارْتَا - لَبْنَا (ف) لَبْنَا: لَبْنَا بِبِيْدِهِ: مَكَا مَارْتَا -

لَبْنَا (ف) لَبْنَا: لَبْنَا بِبِيْدِهِ: مَكَا مَارْتَا - لَبْنَا (ف) لَبْنَا: لَبْنَا بِبِيْدِهِ: مَكَا مَارْتَا -

كِهَا جَاتَا هِي "لَبْنَا بِبِيْدِهِ" اِس كِي مَانِ نِي اِس كُو جِنَا..... هُو بَسَحَجَرُ: پَتْرُ مَارْتَا - لَبْنَا اِلَيْهِ بَعِيْنِهِ: گُهَورْتَا - تَمِيْزُ نَظَرِ سِي دِي كِهْمَا..... الشَّيْءُ: كَم كَرْتَا..... اَلْحَجَارِيْنَةُ: جِمَاعُ كَرْتَا - لَبْنَا: گُوزُ كَرْتَا -

اللَّبِيْنَةُ: هِيْمِيْشَ اِنِي جگہ پَر رَهْنِي وَالْا - لَبْتُ (ن) لَبْنَا وَلَبْنَا بِبِيْدِهِ: چِي كِنَا..... فَيْهِي: ثَابِتٌ رَهْنَا..... فَيْهِي مَنَحَرُ النَّاقَةِ: بَهْمَالُ مَارْتَا (..... وَ لَبْتُ) السَّرْجُ عَلِي الْفَرَسِ: زِيْرِنُ كَسْنَا اُور كِهَا جَاتَا هِي "لَبْتُ عَلَيْهِ فُوَيْتُهُ" جِبُ كِي كِي پُرَا اِنِي اُور اِتَارْتَا نَا چَا هِي -

اَلْبَبُ عَلَيْهِ الْاَمْرُ: وَاجِبٌ كَرْتَا - تَلَابْتُ القَوْمُ: قَوْمُ كَا بَاهِمُ مَلَانَا..... بِالرَّمَا حِ: اِيكِي دُوسْرِي كُو تَمِيْزُهُ مَارْتَا -

اَلْبَبُ: القَوْمُ: كِيْزُ اِنِي هِنَا - اللَّحَابُ: چِي كِي وَالْا - ثَابِتٌ رَهْنِي وَالْا - اَلْبَبُ: هِيْمِيْشَ گَهْرِ مِيں رَهْنِي وَالْا - گُوشُ تَشِيْنُ -

المَلَابِيْبُ: پَرَانِي كِي رِي سِي لَبْعُهُ (ف) لَبْعَا: لَبْعَا: مَلِكْرِي مَار كِي چِهْرِي يَا جِمْسُ كُو زَخْمِي كَرْتَا..... هُو بِيْصَرُهُ: نَگَا هُو اَلْنَا..... فَلَابْنَا: سَبُ كِي لِي لَبْنَا كِيچھ باقِي نَدُ چَهپُو رْتَا..... اَلْحَجَارِيْنَةُ: جِمَاعُ كَرْتَا - لَبْعُهُ بِيْدِهِ: بَاتَحُّ سِي مَارْتَا -

لَبْعُ (س) لَبْعَا: بَهْمُ كَا هُوْتَا - صِفْتُ لَبْعَانِ: مَوْنَتُ لَبْعِي.

رَجُلٌ لَبْعٌ وَلَبْعٌ وَلَبْعٌ وَلَبْعَةٌ: چَالَاكُ عَمَلُ مَنَدِجِ لَبْعُ كِهَا جَاتَا هِي "هُوَ لَبْعُ شِفْرًا مِيْنُهُ" وَهُ بِنَسَبِ اِس كِي مَعَالِي پَرِ زِيَادَهُ قَا بُو يَافِتُهُ هِي -

لَبْعُهُ (ف) لَبْعَا: آ لُودُهُ كَرْتَا..... الشَّيْءُ: چَهپَا رْتَا -

تَلْبَعُ بالشَّيْءِ: آ لُودُهُ هُوْتَا - لَبْنَا (ن) لَبْنَا: لَبْنَا بِبِيْدِهِ: مَكَا مَارْتَا -

لَبْنَا (ن) لَبْنَا: لَبْنَا بِبِيْدِهِ: مَكَا مَارْتَا - لَبْنَا (ن) لَبْنَا: لَبْنَا بِبِيْدِهِ: مَكَا مَارْتَا -

لَبْنَا (ف) لَبْنَا: لَبْنَا بِبِيْدِهِ: مَكَا مَارْتَا - لَبْنَا (ف) لَبْنَا: لَبْنَا بِبِيْدِهِ: مَكَا مَارْتَا -

لَبْنَا (ف) لَبْنَا: لَبْنَا بِبِيْدِهِ: مَكَا مَارْتَا - لَبْنَا (ف) لَبْنَا: لَبْنَا بِبِيْدِهِ: مَكَا مَارْتَا -

لَبْنَا (ف) لَبْنَا: لَبْنَا بِبِيْدِهِ: مَكَا مَارْتَا - لَبْنَا (ف) لَبْنَا: لَبْنَا بِبِيْدِهِ: مَكَا مَارْتَا -

لَبْنَا (ف) لَبْنَا: لَبْنَا بِبِيْدِهِ: مَكَا مَارْتَا - لَبْنَا (ف) لَبْنَا: لَبْنَا بِبِيْدِهِ: مَكَا مَارْتَا -

لَبْنَا (ف) لَبْنَا: لَبْنَا بِبِيْدِهِ: مَكَا مَارْتَا - لَبْنَا (ف) لَبْنَا: لَبْنَا بِبِيْدِهِ: مَكَا مَارْتَا -

لَبْنَا (ف) لَبْنَا: لَبْنَا بِبِيْدِهِ: مَكَا مَارْتَا - لَبْنَا (ف) لَبْنَا: لَبْنَا بِبِيْدِهِ: مَكَا مَارْتَا -

لَبْنَا (ف) لَبْنَا: لَبْنَا بِبِيْدِهِ: مَكَا مَارْتَا - لَبْنَا (ف) لَبْنَا: لَبْنَا بِبِيْدِهِ: مَكَا مَارْتَا -

لَبْنَا (ف) لَبْنَا: لَبْنَا بِبِيْدِهِ: مَكَا مَارْتَا - لَبْنَا (ف) لَبْنَا: لَبْنَا بِبِيْدِهِ: مَكَا مَارْتَا -

اللثانة: جمہولی قسم۔

الثلثة: بے فائدہ کلام۔ کم قیمت کاموں میں مشغول ہونا۔ اس کا باپ: ثلثت فہو ثلثات وهي ثلثاة۔

لثمة (ن ض) لثما: مارنا۔ نکتے پر نیزہ مارنا۔ لثم السهم: تیر پھینکنا۔ ة بسهم: تیر مارنا۔ فلان بشفرتہ فی لثہ بغيرہ: اونٹ کے لمبے پر چھری چلانا۔ لثمت الحجارة رجل الماشي: چھروں کا چلنے والے کے پیر کو زخمی کرنا۔

اللثم: زخم۔

اللائني: لا يئنون ولا يئنين: مؤنث لا يئنية لا يئنيوم: کی طرف نسبت یہ لٹی کا مقام مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے شعب لائینی ولفہ لائینة۔

اللين: بیٹھا۔

اللتنة: سہی۔

التي واليت واللت الذي: کا مؤنث ج اللاتي واللات واللواتي واللوات واللوات واللوات اور شنیہ کے لئے اللتان واللتان: تشدید یون کے ساتھ۔

واللتا: بغیر یون کے حالت رفی میں واللتی: حالت الفعی وجرى میں۔

اللتيا واللتيا: اليتی کی تصغیر اور شنیہ کی صورت میں اللتیان واللتیان اور جمع کے لئے اللتیات واللتیات: کہا جاتا ہے "وقع فی اللتیا والیتی" یعنی بڑی بڑی مختلف مصیبتوں میں پڑ گیا۔ "وَبَعْدَ اللَّتْيِ وَالَّتِي صَارَ كَذَا" یعنی بہت جھگڑوں کے بعد ایسا ہوا۔

لث (ن) لثا وآلث بالمكان: اقامت کرنا۔ المظطر: چند روز تک برسا۔

غلبه: اصرار کرنا و لث الشجر: درخت کو تری پہنچانا۔

اللت: مصل۔ تری۔

لثا (ف) لثا الكلب: کتے کا منہ ڈالنا۔

اللتا: وہ چیز جو درخت سے چمکے یا ہے۔

لث (ض) لثدا. المصاع: سامان تہ بہ تہ رکھنا۔

الثلثة: جماعت جو مقیم ہو اور کوچ نہ کرے۔ لثط (ض) لثطا فلثا: آہستہ آہستہ مارنا۔ آہستہ سے پھینکنا۔ آہستہ آہستہ چمکی دینا۔

الثلثة: دانت کی جڑوں سے ہونٹ کا ملا ہوا حصہ۔

الثلث: ہکلا۔ مؤنث لثعارج لثع: لثع (س) لثعا وثلثع: ہکلا پن ہونا۔ صفت الثع مؤنث لثعارج لثع.

الثلثة: سین کی جگہ میں تاء۔ راء کی جگہ میں غین یا لام وغیرہ ہولنا۔ ہکلا پن۔

الثلثة: منہ۔ لثق (س) لثقا السوم: بند ہوا والا۔ اور نمناک ہونا۔ المصافر: کچھڑ میں پڑنا۔

ثابته: کپڑوں کا تر ہونا۔ الطائر: پروں کا تر ہونا۔ صفت لثق.

لثق الشئ: خراب کرنا۔ فاسد کرنا۔ تباہ کرنا۔

اللق الشئ: تر کرنا۔ اللثق وثلثق: تر ہونا۔

اللقق: تری۔ کچھڑ۔ گارا۔ کہا جاتا ہے "مشتا فی لثق" ہم کچھڑ میں چلے۔

اللقق: چپکنے والی مٹی "یوم لثق" بند ہوا اور نمناک دن۔

لثقت المنظر: بارش کا چند دن تک برسا۔

الرجل: کمزور ہونا۔ علی فلان: اصرار کرنا۔ ة عن كذا: منع کرنا۔ روگنا۔

الضراب: لوٹ لگوانا۔ لثقت البعير: اونٹ کو تھکانا۔ کلامہ: صاف نہ کہنا اور کہا جاتا ہے "لثبوا بنا" ہمیں تھوڑا سا آرام لینے دو۔ (.....) وثلثت فی الامر: تر دو کرنا۔ دیر کرنا۔ بالمكان: اقامت کرنا۔ لثقت فی الضراب: مٹی میں لوٹ لگانا۔ الغيم و السحاب: بادلوں کا آنا جانا۔

الثلث والثلثات والثلثات والغائث: ہر معاملے میں دیر کرنے والا جب کبھی تمہیں گمان ہو کہ تمہاری حاجت پوری کرے گا تو کاہلی کر جائے۔

لثم (ض) ولثم (س) لثما القم اولوجة: بوسہ لینا۔

لثم (ض) لثما انفه: ناک پر مارنا۔ الحجارة حث البعير: ٹھوکر لگنا اور خون آلود کر دینا۔ البعير الحجارة بخصبه: ٹھوکر سے توڑ دینا۔

لثم ولثم ولثم وتلثم وتلثم الرجل: ڈھاننا یا بندھنا۔ لاقمة: بوسہ لینا۔ ثلاثما: ایک دوسرے کا بوسہ لینا۔

اللثم: مصل۔ ناک اور اس کا ماحول۔ اللاتم: فاج لثم۔ اللثمة: بوسہ لینے کی ہیئت۔ اللثمة: لثم۔ کا اسم مرہ۔ بوسہ۔

اللفام: ڈھاننا۔ کپڑا جو ناک اور اس کے ارد گرد لپیٹا جائے۔ نقاب۔ ج لثم۔ لثی لثی لثی: تھوڑا پانی پینا۔ القندر: ہانڈی کو خوب چائنا۔ (.....) والٹی: شجر السمر: نمناک ہونا اور گوند بہنا۔ لثیت الیذین طین ونحوہ: ہاتھ کا لٹ پت ہونا۔ دودھ کی چکناہٹ سے چکنا ہونا۔ لثی الثوب: کپڑے کا پینسے سے تر ہونا اور میلا ہونا۔ لثت الشجرة ما حولها: نمناک کرنا۔ لثی والٹی: گوند کا لٹنا۔ لثی الشجر: گوند بہنا۔

اللفی: مصل۔ گوند۔ دودھ کی چکناہٹ۔ تری۔ لثی الثوب: کپڑے کا میل۔ اللثة: مسوڑھا۔ ج لثی ولثات ولثی۔ اللثی: نمناک۔ ثوب لث: پینسے سے تراور میلا۔ اللثی: گوند کھانے کا حریص۔ اللثة: حلق کا کوا۔ ایک درخت کا نام۔ الحروف اللثویة: تاء۔ ذال۔ ظا۔

لَجَّ (ض س) لَجَجًا وَلَجَجًا وَلَجَاجَةً: سخت جھگڑا کرنا۔ دشمنی میں مداومت کرنا۔ فی الأمور: لازم ہونا اور باز رہنے سے انکار کرنا۔ بہہ الهم ونحوہ: لازم رہنا۔ غلی فلان فی المسألة: اصرار کرنا اور جلدی فیصلہ کی خواہش کرنا۔

لَسَجَّ وَالسَّجُّ القَوْمُ: قوم کا پانی کے گہرے حصے میں داخل ہونا۔ لَسَجَّتِ السَّيْفِيَّةُ: کشتی کا پانی کے گہرے میں چلنا۔ أَلَجَّتِ الأبل: اونٹ کا بڑا ہونا۔

لَاجَ: خَصْمُهُ: جھگڑے میں مداومت کرنا۔ تَلَجَّجَ وَإِسْتَلَجَّ مَنَاعَ فلان: کسی کے سامان پر دعویٰ کرنا۔ اِسْتَلَجَّ بِيَمِينِهِ: اصرار کرنا اور یہ گمان کرتے ہوئے کہ صادق ہے کفارہ ادا نہ کرنا۔

الْبَحْرُ السَّاحِرُ: سمندر کا متلاطم ہونا۔ الأَرْضُ بِالسَّرَابِ: موج جیسا ہونا۔ الأضْرُ أو المَوْجُ: معاملہ کا یا موج کا بڑا ہونا۔ السَّطْلَامُ: اندھیرے کا گھٹا ٹوپ ہونا۔ اِنْتَجَبَتِ الأَرْضُ: زیادہ اور لمبی نباتات والی ہونا۔ الضواوت: آوازوں کا مخلوط ہونا۔

السَّجُّ: پانی کا بڑا حصہ۔ بڑی جماعت۔ وادی کا کنارہ۔ تلوار۔ پہاڑ میں سخت جگہ۔ کہا جاتا ہے "فَرَسٌ أَذْهَمَ لَجَّ" بہت سیاہ گھوڑا۔

السَّجَّةُ: پانی کا بڑا حصہ۔ بڑی جماعت۔ چاندی۔ کہا جاتا ہے "فلان لَجَّةٌ وَابِعَةٌ" فلاں کشادگی میں سمندر کے مشابہ ہے۔ ج لَجَّ وَلَجَّجَ وَلَجَجًا وَاللَّجَّةُ: آئینہ۔ اللججی: لَجَّ: کی جانب منسوب۔ کہا جاتا ہے "بَحْرٌ لَجَجِيٌّ" یعنی بحر بے پایاں۔ اٹھاہ۔ سمندر۔

اللَّجَّةُ: لَجَّ: کا اسم مرۃ۔ شور۔ اللَّجَّ وَاللَّجْوَجُ وَاللَّجْوَجُ وَاللَّجْجَةُ وَاللَّجْجَةُ: سخت جھگڑا۔

المُتَلَجِّجَةُ: بہت سیاہ آنکھ۔ بہت سبز زار زمین۔

لَجَجًا (ف) لَجَجًا وَلَجْوَةً أَوْ لَجَجِي (س) لَجَجًا وَاللَّجَجًا إِلَى الحِصْنِ وَغَيْرِهِ: قلعہ وغیرہ کی پناہ لینا۔

لَجَجًا تَلَجَجْتَهُ: فلان مَالَهُ: بعض ورثاء کے لئے خاص کر دینا۔ وَاللَّجَجُ: مُضْطَرُ کرنا۔ مجبور کرنا۔ اللججاء: بچانا۔ اللججاء أَمْزُةٌ إِلَى اللّٰهِ: سپرد کرنا۔

تَلَجَجًا إِلَيْهِ: سہارا لینا۔ مِنَ القَوْمِ: قوم سے علیحدہ ہونا اور دوسروں کا سہارا لینا۔

المَلَجُّ: مصل۔ قلعہ۔ جائے پناہ۔ رَج اللججاء: وارث۔ بیوی۔ کچھوے کی ایک قسم جو خشکی اور تری دونوں میں رہتا ہے واحد اس کا لَجَجَةٌ ہے۔

التَلَجُّجَةُ: مصل۔ عِنْدَ الفُقهاء: کسی ایسے فعل کے کرنے پر مجبور کرنا جس کا ظاہر باطن کے خلاف ہو۔

الْمَلَجَاتَةُ: ایک پہاڑی پودا جس کے پھول بطور سبزی استعمال ہوتے ہیں۔ السَّالَجُ: جائے پناہ۔ پناہ لینا۔ ج مَلَاجِي.

لَجَبٌ (س) لَجَبًا البَحْرُ: سمندر کا جوش میں آنا۔ القَوْمُ: شور مچانا۔ لَجَبِيَّتٌ (س) لَجْوِيَّةٌ وَلَجَبِيَّتٌ الشَّاةُ: کم دودھ والی ہونا۔ زیادہ دودھ والی ہونا۔ لَجَبَهُ بِالسَّيْفِ: تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

اللَّجَبُ: مصل۔ گھوڑے کی تنہا ہٹ۔ بہادروں کا شور۔ کہا جاتا ہے "تَحَسَّرَ ذُو لَجَبٍ" شور مچانے والا سمندر۔ اللجج: شور مچانے والا۔ سخت شور مچانے والا۔ کہا جاتا ہے "جَبَّشَ لَجَبٌ" شور مچانے والی فوج۔

اللَّجْبَةُ وَاللَّجْبَةُ وَاللَّجْبَةُ وَاللَّجْبَةُ وَاللَّجْبَةُ وَاللَّجْبَةُ: کم دودھ والی بکری۔ زیادہ دودھ والی بکری۔ ج لَجِبًا وَلَجِبَاتٍ.

المَلَجَّبُ: تیر کہ جس میں پر لگا دیئے گئے ہوں اور پیکان نہ ہو۔

لَجَجَدًا (ن) وَلَجَجَدًا (س) لَجَجَدًا وَلَجَجَدًا: الكَلْبُ الأَنَاءُ: کتے کا برتن کو اندر سے چائنا۔ لَجَجَدًا: الرَّجُلُ: کھانا۔ ایک دفعہ دیئے جانے کے بعد زیادہ سوال کرنا۔ الجججاء: گدھے کا پہلی مرتبہ چرنا۔ السَّابِيَةُ الحَمَلُ: جانور کا گھاس کود انتوں کے اطراف سے کھانا۔ مِنَ الشَّيْءِ: تجاوزا سالینا۔ فَلانًا: برا بیچنا۔ تم کہتے ہو "لَجَجَدَنِي عَلَى كَذَا" اس نے مجھ کو فلاں کام پر برا بیچنا کیا۔

لَجَجَفَةٌ (ن) لَجَجَفًا: سخت مارنا۔ لَجَجَفَتِ (س) لَجَجَفًا البُيُوتُ: کنواں وسیع و کشادہ ہونا۔ صفت لَجَجَفًا.

لَجَجَفَتِ البُيُوتُ: کنوئیں کو وسیع کرنا۔ الشَّيْءُ: جوانب سے کشادہ کرنا۔ تَلَجَجَفَتِ البُيُوتُ: جوانب سے کھودنا۔ تَلَجَجَفَتِ وَالتَّلَجَجَفَتِ البُيُوتُ: جوانب سے کھدایا ہونا۔ کنوئیں کا گرنا۔ منہدم ہونا۔ تَلَجَجَفَتِ البُيُوتُ: دُشِّي جانور کا ہرن کی جھاڑی کے ارد گرد کھودنا۔

السَّلَجَفُ: مصل۔ کنوئیں کے جوانب میں کھدائی۔ کنوئیں کی تہ کا وہ حصہ جس کو پانی گرا دے۔ سیلاب کے بند ہونے کی جگہ۔ وسط وادی۔ ج الأَجَافُ.

السَّلَجَافُ: پہاڑ میں غار کے اوپر بڑھا ہوا حصہ۔ دروازے کی چوکھٹ۔ ج الأَجَفَةُ وَاللَّجَفُ.

المَلَجَجَفَةُ: دروازے کے پہلو۔ بِنُو مَلَجَجَفَةٍ: منہدم کنواں۔ لَجَجَلَجٌ لَجَجَلَجَةٌ وَتَلَجَجَلَجٌ: تلتانا۔ فِي صَدْرِهِ شَيْءٌ: تھکانا۔ لَجَجَلَجٌ اللقمة فِي فِيهِ: بغیر چبانے کے منہ میں پھرانا۔ تَلَجَجَلَجٌ بِالشَّيْءِ: سبقت کرنا اور کہا جاتا ہے "تَلَجَجَلَجٌ ذَاةً مِنهُ" یعنی اس نے اس کے گھر کو لے لیا۔

المَلَجَلَجُ: توتلا۔ بکا۔ لَجَجَمٌ (ن) لَجَجَمًا الثَّوْبُ: کپڑا لینا۔

الْحَمَّ الذَّابَّةُ: چوپایہ کو لگام لگانا۔
 الْقِدْرُ: دیک کے کڑے میں کڑی لگا کر
 اٹھانا۔ النَّاقَةُ: لگام سے داغ لگانا۔ دُعْنُ
 خَاجْتِه: روکنا۔ کہا جاتا ہے "نَحْلَمُ
 فَالْجَمْتَهُ وَالْمَقْتَهُ الْحَجْرَ" اس نے گتتو
 کی تو میں نے اس سے بند کر دیا۔
 الْحَمُّ وَالْحَمُّ الْمَاءُ فَلَانًا: پانی کا مت تک
 پیننا۔
 الْحَمَّ الذَّابَّةُ: لگام لگانا۔
 اسْتَلْحَمَ فَلَانًا الْفَرَسَ: لگام لگانے کو کہنا۔
 الْحَجَمُ: زمین نہ پست نہ بلند۔ ج
 الْحَجَامُ: (.....) واللَّحْمُ وَاللَّحْمُ كُرْكُتُ -
 مینڈکیں۔ جانور جس سے بدفالی لیں۔
 اللَّحْمُ: فضاء آسانی۔
 اللَّحْمَامُ: لگام۔ ج لَحْمٌ وَلَحْمٌ وَالْحَمَّةُ:
 اوتوں کا نشان اور کہا جاتا ہے "جَاءَ فَلَانٌ
 وَقَدْ لَفَّظَ لِحَامَهُ" یعنی فال شخص اپنی
 حاجت سے تھک کر واپس ہوا اور عرب کے
 امثال میں سے ہے "اتَّخِذِ الْفَرَسَ لِحَامَهَا"
 بھلائی کو پورے طریقے سے کرنے کے لئے
 کہنے کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے۔
 اللَّحْجَامُ: لگام میں بنانے والا۔
 اللَّحْجَامُ: جس سے بدشگونی لی جائے۔
 اللَّحْمَةُ وَاللَّحْمُ: لگام دینے کی جگہ۔
 اللَّحْمَةُ: لَحْمُ: لگام کا واحد۔ زمین کے لئے
 علم۔ لِحْمَةُ الْوَادِي: کنارہ وادی۔
 اللَّحْمَةُ: سطح پہاڑ۔ زمین کے لئے علم لِحْمَةُ
 الْوَادِي: وادی کا کنارہ۔
 الْمِكْيَالُ الْمُلْحَمُ: ڈھائی صاع کا پیمانہ۔
 لِحْنٌ (ن) لِحْنًا وَلِحْنٌ وَرَقُ الشَّجَرِ
 وَنَحْوُهُ: تپوں کو کوٹ کر آٹا جو ملا کے چارہ
 تیار کرنا۔
 لِحْنٌ (ن) لِحْنًا وَلِحْنًا الْبَعِيرُ: اوت کا
 اڑیل ہونا۔ فِی الْمَشِيِّ: آہستہ چلنا۔
 لِحْنٌ (س) لِحْنًا: چہنہ۔
 نَلْحَنُ الشَّيْءَ: لیس وار ہونا۔ زَامَةٌ: میلا
 ہونا۔ الْقِسْمُ: پتے اور آٹا جو ملا کر چارہ

بنانا۔
 اللَّحْنُ: میلا۔
 اللَّحْنُ: کہے ہوئے پتے اور آٹا یا جو ملا کر
 تیار کیا ہوا چارہ۔
 اللَّحْنَةُ: جماعت۔ پارٹی۔
 اللَّحْنُونَ مِنَ الْجَمَالِ وَالنُّوقُ: ست رفتار
 اوت یا اونٹنی۔
 اللَّحْنُ: چاندنی (تفسیر ہی کے وزن پر
 مستعمل ہے)
 اللَّحْنِيَّةُ: درابہم (لحین) کی طرف منسوب
 ہونے کی وجہ سے)
 اللَّحْنِيُّ السِّيَاحُ غَيْرُ قَوْمِهِ: غیر قوم کی طرف
 اپنے کو منسوب کرنا۔
 لَحْتٌ (ن ض) لَحْنَا الْقَرَابَةَ بَيْنَنَا: رشتہ
 داری نزدیک ہونا۔
 لَحْتٌ (س) لَحْنَا وَلَحْنَا الْغَيْثُ: کچھ
 سے پکوں کا چکنا۔
 اللَّحُّ فِي السُّؤَالِ: سوال میں اصرار کرنا۔
 السَّحَابُ بِالْمَنْطَرِ: بادل کا لگا تار برسا
 الْمَنْطَرُ: سواری کا تھک کر بر کرنا۔
 الْقَنْبُ عَلِيُّ ظَهْرُ الذَّابَّةِ: پالان کا چوپایہ کی
 پیٹھ کو زخمی کرنا۔ اَلْحَمْلُ: اوت کا اڑیل
 ہونا۔
 تَلَحَّحَ عَلَيْهِ: مثل اللَّحِّ عَلَيْهِ.
 اللَّحُّ: مہم۔ کہا جاتا ہے "هُوَ ابْنٌ وَعَوِي
 لَحْنَا" وہ میرا قریبی چچا زاد ہے اور لحا لحا
 کی بنا پر منسوب ہے اس لئے کہ اس کا ما قبل
 معرف ہے اور نکرہ کی صورت میں تم کہو گے
 "هُوَ ابْنُ عَمِّ لِحْ" جر کے ساتھ اس لئے کہ
 یہ عم کی صفت ہے اور ایسا ہی مؤنث اور مشبہ
 اور جمع۔
 اللَّاحُ: فَا۔ مَكَانٌ لَاحٌ وَلِحْجٌ: ٹھک جگہ۔
 السَّلْحَاجُ: بہت اصرار کرنے والا۔ پالان
 جو پیٹھ کو زخمی کر دے۔ سَحَابٌ مَلْحَاجٌ:
 لگا تار برسنے والا بادل۔
 لَحَبٌ (ف) لَحْبًا الطَّرِيقُ: راستہ پر چلنا۔
 راستہ کو واضح کرنا۔ الشَّيْءُ: اثر کرنا۔

بِفُلَانٍ الْأَرْضُ: زمین پر پگدینا۔ بچھاڑ
 دینا۔ بِالسَّيْفِ: تلوار سے مارنا۔
 اللَّحْمُ: گوشت کو لمبائی میں کاٹنا۔ اللَّحْمُ
 عَنِ الْعَظْمِ: گوشت کو ہڈی سے جدا کرنا
 الرَّجُلُ: سیدھا چلنا یا تیز چلنا۔ کہا جاتا
 ہے "فَمَرَّ بِلَحْبٍ" (..... لَحْوَانًا) الطَّرِيقُ:
 راستہ کا واضح ہونا۔ ظَهَرَ الْفَرَسُ:
 گھوڑے کی پیٹھ کا تھوڑی سی ہلچلی کے ساتھ
 چلنا ہونا۔ الْمَرْءُ: جماع کرنا۔
 لَحَبٌ (س) لَحْبًا الرَّجُلُ: بڑھاپے کی وجہ
 سے ڈبلا ہونا۔ لَحْمٌ زَيْدٌ: الاغر ہونا۔
 لَحَبُ الشَّيْءِ: اثر کرنا۔ نشان چھوڑنا۔
 كَلَّوْا كَلًّا: کرنا۔ فَلَانًا: ڈبیل کرنا۔
 بِالسَّيْفِ: تلوار سے مارنا۔
 السَّحْبُ الطَّرِيقُ: راستہ پر چلنا۔
 اللَّحْبُ: مہم (.....) وَاللَّحْبُ: کشادہ
 راستہ۔ کہا جاتا ہے "طَرِيقٌ لَحْبٌ
 وَلَا حَبٌ" کشادہ راستہ۔
 اللَّحْبُ: پیٹھ پر کم گوشت والی اونٹنی۔
 السَّلْحَابُ: بہت گالی بکنے والا بزدبان۔
 كَانَتْ يَأْخِضُنَّ كَأَوْزَارٍ: فتح زبان۔
 الْمَلْحُوبُ: مفعول زَجَلٌ مَلْحُوبٌ: الاغر مرد۔
 طَرِيقٌ مَلْحُوبٌ وَمَلْحَبٌ: واضح راستہ۔
 لَحْتٌ (ف) لَحْنَا الْعَصَا: الاٹھی کو چھیلنا
 فَلَانًا بِالْعَصَا: الاٹھی سے مارنا
 الرَّجُلُ: سب کچھ لے لینا اور کچھ نہ
 چھوڑنا۔ کہا جاتا ہے "لَحْنُوا كَمَنْ
 يُلْحَثُ الْقَضِيبَ" انہوں نے تم سے مال
 وغیرہ لے کر تم کو ایسا تنگ کر دیا جس طرح
 شاخ چھیل دی جاتی ہے۔
 اللَّحْتُ: مہم۔ خالص۔
 اللَّحَاتَةُ: اتاری ہوئی چھال۔
 لَحَجَةٌ (ف) لَحَجًا: مارنا۔ دُ بَعْنِيهِ:
 نظر بد لگانا۔ لَحَجٌ إِلَيْهِ: پناہ لینا۔
 لَحِجٌ (س) لَحَجًا السَّيْفُ وَنَحْوُهُ: تلوار
 کا ممان میں چٹ کر رہ جانا۔ بِالْمَكَانِ:
 لازم پکڑنا۔ الشَّيْءُ: ٹھک ہونا۔

الْمَلْحِي: مَلْحٌ هُوَ: صَفْتُ الْمَلْحَج. لَجِحْتُ
عَيْنُهُ: كَجَزَّوَالِي آكَلَهُ هُوَ نَا.
لَمَحَج عَلَيْهِ الْغَبْرُ: غَلَطَ بِمَرَدِي نَا.
الْمَلْحَجَةُ إِلَيْهِ: مَجْبُورٌ كَرِمَا.
الْمَلْحَجُ إِلَيْهِ: مَأْمَلٌ هُوَ نَا..... إِلَيْهِ: مَأْمَلٌ
كَرِمَا. مَجْبُورٌ كَرِمَا.
تَلْمَحَجُ الْأَمْرَ عَلَى فَلَانٍ: مَعْمِرٌ كَرِمَا خِلَافِ
ظَاهِرٌ كَرِمَا.
اسْتَلْمَحَجُ الْبَابَ: دَرَوَازَهُ كَابِنْدٌ هُوَ نَا.
الْمَلْحَجُ: مَعْصٌ آكَلَهُ كَاكْرُوحَا.
الْمَلْحَجُ: آكَلَهُ كَاكْرُوحَا. كَرِمَا كَاكْرُوحَا.
پہاڑ کا ابھرا ہوا حصہ۔ وادی کا گوشہ و
کنارہ۔ مَلْحَجُ الْحَاجِجِ: مَكَانٌ لَجِحِجِ: جَنَگِ
مَكَانِ.
الْمَلْحَجُ: آكَلَهُ كِي كَجِزَّ.
الْمَلْمَحَجُ وَالْمَلْمَحَجُ: جَاءَ نَظَاهُ كَمَا جَاءَ
عَ "إِنَّ فِي السَّاسِ لَمَلْمَحَجًا" لَوَكُورٌ فِي
جَاءَ نَظَاهُ عَ قَفَلٌ مَلْمَحَجُ: بِنْدَتَا لَا.
الْمَلْمَحَجُ: تَنَمَّيَا.
الْمَلْمَحَجُ: پہاڑ کے تنگ راستے۔
لَمَحُوجٌ عَلَيْهِ الْأَمْرُ: مَعْمِرٌ كَرِمَا خِلَافِ ظَاهِرِ
كَرِمَا.
لَحَدَ (ف) لَحَدًا. الْيَمِينُ: مَيْتٌ كُوْدُرُنِ
كَرِمَا..... الْمَلْحَدُ: كَحُوْدَا..... لِلْمَيْتِ: بَغْلِي
قَبْرِ كَحُوْدَا..... السَّهْمُ عَنِ الْهَدَفِ: نَشَانٌ
سَعِ خَطَا كَرِمَا..... إِلَيْهِ فَلَانٌ: مَأْمَلٌ هُوَ نَا.....
فِي الدِّينِ: بَدِيئِي اِخْتِيَارٌ كَرِمَا..... عَلِيٌّ فِي
شَهَادَتِهِ: كَرِمَا كَرِمَا.
الْحَدُّ الْحَادَا. الْيَمِينُ: مَرْدَةٌ كُوْدُرُنِ كَرِمَا.....
الْمَلْحَدُ: كَحُوْدَا..... لِلْمَيْتِ: بَغْلِي قَبْرِ كَحُوْدَا
..... عَنِ الدِّينِ: دِيْنٌ سَعِ بَنَا. دِيْنٌ فِي
طَعْنِ كَرِمَا. جَنَگُ كَرِمَا. اِحْكَامٌ خَدَاوَدِي كُو
جَمُورٌ نَاوِرٌ ظَلَمِ كِي طَرَفِ مَأْمَلٌ هُوَ نَاوِرٌ اَللّٰهُ كِي
بَارِعٌ فِي شَكِّ كَرِمَا..... فِي الْحَرَمِ: مَحَارِمُ
كُو طَالٌ جَمْعًا اُوْرَبِعُ عَزِي قِي كَرِمَا..... السَّهْمُ
الْهَدَفِ: نَشَانٌ كِي اِيكٌ جَانِبِ فِي لَكْنَا.....
بِهِ: مَيْبُ لَكْنَا اُوْرَبِطٌ بَاتٌ كَرِمَا.

لَاخَذَ مَلَاخَذَةً صَاحِبَهُ: هَرَايِكٌ كَا اِيكٌ
دَوَسَرٌ سَعِ كَجِي رَتَمَا.
الْمَلْحَدُ عَنِ الدِّينِ: دِيْنٌ سَعِ بَنَا..... إِلَيْهِ
كَمَا: مَأْمَلٌ هُوَ نَا..... إِلَيْهِ فَلَانٌ: نَظَاهُ لِيْمَا.
الْمَلْحَدُ وَالْمَلْحَدُ: بَغْلِي قَبْرِ. قَبْرِ. رَجِ الْحَادَا
وَالْحُوْدُ.
الْمَلْحَدُ: كَامَصْدَرٌ. كَفَرٌ. بَدِيئِي.
الْمَلْحُوْدُ: مَأْمَلٌ هُوَ نَا وَا لَا.
الْمَلْحَدُ: فَآ: كُوْرِكُنِ كَمَا جَاءَ تَابِ "قَبْرٌ
لَاخَذَ وَمَلْحُوْدٌ" بَغْلِي قَبْرِ.
الْمَلْحَدُ: فَآ: كَفَرٌ. بَدِيئِي. رَجِ مَلَاخَذَةٌ
وَمَلْحُوْدٌ الْمَلَاخَذَةُ: كَا فَرُوْدِ كِي اِيكٌ
جَمَاعَتٌ جَسُ كُوْدِرِي كَبْتِي فِي.
الْمَلْحَدُ وَالْمَلْحُوْدُ: بَغْلِي قَبْرِ. قَبْرِ.
الْمَلْحَادَةُ: دِيْنٌ فِي مَبْتِ طَعْنِ كَرِمَا وَا لَا.
الْمَلْمَحَدُ: جَاءَ نَظَاهُ.
لَحِزٌ (س) لَحِزًا: بَخِيْلٌ هُوَ نَا. صَفْتُ لِحِزٍ
وَلِحِزًا.
لَحِزَةٌ (ف) لَحِزًا: اِصْرَارٌ كَرِمَا.
تَلْحِزٌ: بَخِيْلٌ هُوَ نَا. كَهْنِي طِيْرُوْدِ كِي كَهَانِي
كِي لِيْ مَنَ فِي پَانِي بَهْرَا نَا. جَنَگِ يَاسْتَرِ
كِي لِيْ كَرِمَا..... غَنَةٌ: جِيحِي بَنَا.
تَلَاخِزُ الْقَوْمِ: كَلَامٌ فِي مَقَابِلِهِ كَرِمَا.....
الصَّبِيَانُ: اِشْعَارٌ كَا قَلْبِ كَرِمَا.
الْمَلْحِزُ: جَنَگِ جَلَدٌ. رَجِ مَلَاخِزٌ كَمَا جَاءَ تَابِ
"وَقَعُوا فِي الْمَلَاخِزِ" لَوَكُورٌ جَمْعُ بُوْدِي
تَنَمَّيَا فِي مَبْتِ پُرُكِي.
الْمَلْمَلْحِزُ مِنَ الشَّجَرِ: مَبْتِجَانٌ اِيكٌ فِي
اِيكٌ كَهْسَا هُوَ نَا.
الْمَلْمَلْحِزُ: ذَخِيْرَةٌ. خَزَائِنٌ.
لَحَسٌ (ف) لَحَسًا الدُّوْدُ الصُّوْفُ:
كِيْرِي كَا اُوْدِ كُو پَانِي..... الْجَزَاذُ الْخَضِيْرُ
نَمْدِيُوْدِ كَا سَبْرِيُوْدِ كُو چُوْطِ كَرِمَا.
لَحَسٌ (س) لَحَسًا وَلَحَسَةً وَلَحَسَةً
وَمَلْحَسًا الْقَضْعَةُ: يِيْلَهُ كُو بَانِي يَآ نَكَلِي سَعِ
چَانَا اُوْرَاسِي سَعِ مَشَلِ عَ "أَسْرَعُ مَبْتِ
لَحَسِ الْكَلْبِ اَنْفَقَةٌ" كَتِي كَا پَانِي نَاك

چائے سے کئی زیادہ تیز۔
لَحْسَةُ الشَّيْ: چَنَانَا.
الْحَسَنُ الْمَاشِيَةُ: تَهَوُّزٌ اَسَا جَرِمَا. الْخَسْتُ
الْأَرْضُ: سَبْرِي كَا اِبْتِدَائِي حَصَّةٌ كَلَانَا.
الْحَسَنُ مِنْهُ حَقْفَةٌ: حَنٌ لِيْمَا.
الْحَسَنُ: مَعْصٌ. سَبْرِي كِي اِبْتِدَائِي رُوْدِي كِي.
سَنَةٌ لَأَجَسَةً: بَخْتِ مَالِ كَمَا جَاءَ تَابِ
"اَخَذَ نُهُمُ لَوَاجِسٌ" لِيْمَا اِنِ كِي اُوْرَبِطِ
قَطِ سَالِيَا وَاقِعٌ هُوَ مَبْتِ جُو سَارِي پِيْدَاوَرِ كُو
چُوْطِ كَرِمَا..... كَمَا جَاءَ تَابِ هَسَالِكٌ عِنْدِي
لَحْسَةً: تَهَبَارٌ لِيْ مَبْتِ پَاسِ كُو كِي چِيْرِ
نَمِي.
الْحَسُوْسُ: مَبْتِ كِي جِيحِي لَكْنَا وَا لِيْ جِيحِي
كَبِي.
الْحَسُوْسُ: مَبْتِ كِي جِيحِي لَكْنَا وَا لِيْ جِيحِي
وَالْحَسُوْسُ وَالْمَلْحَسُ وَالْمَلْحَسُ: لَاطِي
جُو هَرِ چِيْرِ كُو لِيْ لِيْ مَلْحَسُ: بَهَادَرِ.
الْحَسَا: مَبْتِ چَانِي وَا لَا.
الْحَسَاةُ: لَحَسَا: كَا مَوْنُتٌ. شِيْرِي.
الْحَسَمُ: وَادِي كِي تَنَگِ نَالِي. رَجِ لَحَسِمِ.
لَحَصٌ (ف) لَحَصًا فِي الْأَمْرِ: مَشْغُوْلٌ
هُوَ نَا. خَبْرٌ فَلَانٌ: پُوْرِي طَرِيْقَةٍ سَعِ مَعْلُوْمِ
كَرِمَا اُوْرَبِطِ تَهَوُّزٌ اِبْتِدَائِي كَرِمَا.
لَحَصٌ خَبْرَةٌ: مَبْتِ لَحَصَةٌ..... فِي كَمَا:
خَتِي كَرِمَا..... كَمَا كَرِمَا..... هُوَ عَنِ كَمَا: رُوْدِي كِي.
سَتِ كَرِمَا..... الْكِتَابُ: چِنِي كَرِمَا.
الْحَصُ الْأَمْرُ: مَعَامِلَةٌ كَا خَتِ هُوَ نَا.
الْحَصِيَةُ الْإِبْرَةُ: سُوْئِي كِي نَا كَابِنْدِ هُوَ نَا.
الْحَصَةُ الشَّيْ: مَشْغُوْلٌ هُوَ نَا..... هُوَ إِلَيْهِ كَمَا
جَمُورٌ كَرِمَا..... الْبَيْضَةُ وَالْحَوْهَا: اِنْدِي كُو
تَهَوُّزٌ اِبْتِدَائِي مَبْتِ سَعِ چَانَا..... هُوَ عَنِ كَمَا:
رُوْدِي كِي. سَتِ كَرِمَا..... الْحَصِيَةُ الشَّيْ: كَجِزَّ
سَعِ آكَلَهُ كَا چِيكِ جَانَا.
لَحَاصٌ: مَبْتِ بَرِ كَرِمَا. خَتِي. مَبْتِ.
الْحَصُ: اُوْرَبِ كِي پُوْرِي كِي تَنَمَّيَا.
الْحَصَانُ: دَوْرٌ. تِيْرِي.
الْحَصِي: جَنَگِ. كَرِمَا.

المَلْحَص: جائے پناہ۔

لَحْظَةٌ (ف) لَحْظًا: پانی چھڑکنا۔ زینت دینا۔

التَّحْطُّ الرَّجُلُ: غضبناک ہونا۔

لَحَظَ (ف) لَحْظًا وَلَحْظَانًا فَلَانًا وَآلِي فَلَانٍ بِالسَّيْنِ: گوشہ چشم سے دیکھنا۔ انتظار کرنا۔ (لَحْظًا وَلَحْظًا تَلْحِظُكَ الْبَعِيرُ: اونٹ کو آنکھ کے نیچے داغ کی علامت لگاتا۔

لَا حَظَّ لِحَاظًا وَمُلَا حَظَّةً: انتظار کرنا۔ ایک دوسرے کو دیکھنا۔

تَلَحَّظَ الشَّيْءُ: تنگ ہونا۔

تَلَا حَظَّتِ الْأَشْيَاءُ: ایک دوسرے کے مشابہ ہونا۔ کہا جاتا ہے "أَخْوَالَهُمْ مُنْشَاكِلَةٌ مُتَلَا حِظَةٌ": یعنی ان کے احوال ایک جیسے ہیں۔

السَّحْطُ: مصل۔ آنکھ کا اندرونی حصہ۔ ج لِحَاظٌ وَالْحَاظُ: اللِّحَاظُ وَاللِّحَاظُ: کبئی کی جانب گوشہ چشم۔ آنکھ کے نیچے کا داغ۔ ج لَحْظٌ۔

اللِّحَاظُ: گھر کا گھن۔ و لِحَاظُ السَّهْمِ: تیر کے اوپر کا پر۔ لِحَاظُ الرِّيشَةِ: پر کا سفید نچلا حصہ۔

اللِّحَاظُ: بہت سخت دیکھنے والا۔ التَّلْحِظُ: مصل آنکھ کے نیچے کا داغ۔

اللاِحِظَةُ لِحَاظٌ: کامرہ۔ ج لَحْظَاتٌ: کہا جاتا ہے "جَلَسْتُ عِنْدَهُ لِحَظَةً" میں اس کے پاس ایک لمحہ بیٹھا۔

المَلْحُوظُ: تنگ۔ اللِّحِظُ: شبیہ و نظیر۔

المَلْحِظُ: دیکھنا۔ دیکھنے کی جگہ مَلَا حِظٌ۔ لَحْفَةٌ (ف) لَحْفًا: لحاف اوڑھانا۔ ہ

التَّوْبُ: کپڑا پہنانا۔ ہ يَجْمَعُ كَفِيَّةً مَكَامَارًا..... هُ سَهْمًا: تیر مارنا۔ النَّازُ: الحَطَبُ: آگ میں لگڑی ڈالنا۔ لَحْفٌ

الشَّيْءُ: چائنا..... عَنَهُ اللَّحْمُ: گوشت اتارنا۔ لَحِفَ الْقَمَرُ: چاند کا آخری تین راتوں میں ہونا۔ لَحِفَ لَحْفَةً الرَّجُلُ فِي مَالِهِ: کچھ ضائع ہونا اور کہا جاتا ہے "لَحْفَتِي قَبْلَ لِحَاظِي" یعنی اس نے مجھے زائد عطیہ دیا۔

لَحْفَ إِزَارَةٍ: ازار کو تکبیر سے زمین پر گھسیٹنا۔

الْحَفَّ السَّائِلُ: اصرار سے مانگنا۔ هُ التَّوْبُ: کپڑا پہنانا۔ دوسرے کے لئے لحاف بنانا الرَّجُلُ: دوسرے کے لئے لحاف خریدنا..... حَفِيَّةً: سرمایہ میں مہمان کے لئے بچھونا اور لحاف مہیا کرنا..... شَارِبَةً: مومچھ کاٹنے میں مبالغہ کرنا..... بَه: نقصان پہنچانا..... الظَّفَرُ: جڑ سے ناخن کا ٹٹا..... الرَّجُلُ: دامن کوہ میں چلنا۔ تکبیر سے ازار کو زمین پر گھسیٹ کر چلنا۔

لَا حَفَّةً: مدد کرنا۔ ایک دوسرے کے لئے لازم رہنا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ يُضَاجِعُ السَّيْفَ وَيَلْحِفُ الْخَوْفَ" یعنی فلاں تلوار ساتھ رکھتا ہے اور ڈرتا ہے۔

تَلَحَّفَ وَالتَّحَفَ: اپنے لئے لحاف بنانا۔ بِاللِّحَافِ وَغَيْرِهِ: لحاف وغیرہ سے ڈھانکنا۔

اللِّحْفُ: دامن کوہ۔ اللِّحْفَةُ: لَحْفٌ: کا اسم نوع۔ لحاف اوڑھنے والے کی حالت۔

اللِّحَافُ: رضائی۔ لحاف۔ ج لَحْفٌ. السَّبْلُخْفُ وَاللِّبْلُخْفَةُ: چادر۔ اوپر کا لباس ج مَلَا حِفٌ.

لَحِقَ (س) لَحِقًا وَلَحَاقًا فَلَانًا وَبِفَلَانٍ: پا لینا۔ آ ملنا۔ آ پہنچنا..... إِلَى قَوْمٍ كَمَا: چلنا۔

لَحِقَ (س) لَحُوقًا: الْفَرَسُ: گھوڑے کا دبا ہونا..... النَّسْنُ فَلَانًا: قیمت لازم ہونا۔ لَحْفَةٌ: پیچھے ہونا۔

الْحَقْفَةُ: پالینا۔ آ ملنا..... هُ بِفَلَانٍ: ملا دینا۔ لاحق کر دینا۔

تَلَا حَفَى: ایک دوسرے کے پیچھے ہونا۔ تَلَا حَفَتِ الْمَطَايَا: سوار یوں کا بعض کا بعض سے ملنا۔

الْبَحْفُ: بہ ملنا یا چلنا۔ اسْتَلْحَفَهُ: اپنے خاندان میں ملانا۔ اسْتَلْحَفَ الرَّجُلُ: وادی کی نکلی ہوئی زمین میں کھیتی کرنا۔

السَّحْفُ: جو اپنے پہلے کے ساتھ ملے۔ پھل جو پہلے پھل کے بعد ہو۔ ج الْحَاقُ: السَّحْفُ: قوم جو اپنے سے پہلی قوم کے ساتھ اُس کے گزر جانے کے بعد لاحق ہو۔ لَحِقَ الْغَنَمُ: بکری کے بچے (..... وَالْمُلْحَقُ) شئ زائد۔ تحفہ کتاب۔

السَّحَاقُ: وادی کے وہ قطعات جہاں پانی خشک ہو جانے کے بعد زراعت کریں۔ مفرد اللحق ہے۔

اللِّحَاقُ: کمان کا غلاف۔ اللِّحَاقُ: فَا: پہلے پھل کے بعد کا پھل۔ اَبْوُ لَاحِقٍ: باز۔

اللاِحِقَةُ: لاحق۔ لاحق: کامونٹ۔ پہلے پھل کے بعد کا پھل۔ ج لَوَاحِقُ.

السُّوَيْحِقُ: باز کے انواع میں سے ایک شکاری پرندہ۔ جس کی پینہ میانی اور سید سفید ہوتا ہے۔

السُّلْحَاقُ: تیز تیر پھینکنے والی کمان اونٹنی جس سے اونٹ آگے نہ بڑھ سکیں۔

السُّلْحِقُ: خاندان میں ملایا ہوا۔ لَحَكَ (ف) لَحْكًا وَلا حَكَ وَتَلَا حَكَ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: چپکانا۔ تَلَا حَكَ الشَّيْءُ: ایک دوسرے میں داخل ہونا۔ تَلَا حَكَ الشَّيْءَانِ: عمارت کا مضبوط ہونا۔ وَلَحَكَ الصَّبِيُّ: بچے کے منہ میں دوایا کتا۔

لَوْ حَكَ فَقَارَ ظَهْرِهِ: بعض کا بعض میں داخل ہونا۔ لَحَكَ (س) لَحْكًا: الْفَعْسَلُ: شہد چائنا۔ اللِّحْكَةُ وَاللِّحْكَاءُ: چھپکلی کی مانند ایک کبڑا

تَلَا حَفَى: ایک دوسرے کے پیچھے ہونا۔ تَلَا حَفَتِ الْمَطَايَا: سوار یوں کا بعض کا بعض سے ملنا۔

الْبَحْفُ: بہ ملنا یا چلنا۔ اسْتَلْحَفَهُ: اپنے خاندان میں ملانا۔ اسْتَلْحَفَ الرَّجُلُ: وادی کی نکلی ہوئی زمین میں کھیتی کرنا۔

السَّحْفُ: جو اپنے پہلے کے ساتھ ملے۔ پھل جو پہلے پھل کے بعد ہو۔ ج الْحَاقُ: السَّحْفُ: قوم جو اپنے سے پہلی قوم کے ساتھ اُس کے گزر جانے کے بعد لاحق ہو۔ لَحِقَ الْغَنَمُ: بکری کے بچے (..... وَالْمُلْحَقُ) شئ زائد۔ تحفہ کتاب۔

السَّحَاقُ: وادی کے وہ قطعات جہاں پانی خشک ہو جانے کے بعد زراعت کریں۔ مفرد اللحق ہے۔

اللِّحَاقُ: کمان کا غلاف۔ اللِّحَاقُ: فَا: پہلے پھل کے بعد کا پھل۔ اَبْوُ لَاحِقٍ: باز۔

اللاِحِقَةُ: لاحق۔ لاحق: کامونٹ۔ پہلے پھل کے بعد کا پھل۔ ج لَوَاحِقُ.

السُّوَيْحِقُ: باز کے انواع میں سے ایک شکاری پرندہ۔ جس کی پینہ میانی اور سید سفید ہوتا ہے۔

السُّلْحَاقُ: تیز تیر پھینکنے والی کمان اونٹنی جس سے اونٹ آگے نہ بڑھ سکیں۔

السُّلْحِقُ: خاندان میں ملایا ہوا۔ لَحَكَ (ف) لَحْكًا وَلا حَكَ وَتَلَا حَكَ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: چپکانا۔ تَلَا حَكَ الشَّيْءُ: ایک دوسرے میں داخل ہونا۔ تَلَا حَكَ الشَّيْءَانِ: عمارت کا مضبوط ہونا۔ وَلَحَكَ الصَّبِيُّ: بچے کے منہ میں دوایا کتا۔

لَوْ حَكَ فَقَارَ ظَهْرِهِ: بعض کا بعض میں داخل ہونا۔ لَحَكَ (س) لَحْكًا: الْفَعْسَلُ: شہد چائنا۔ اللِّحْكَةُ وَاللِّحْكَاءُ: چھپکلی کی مانند ایک کبڑا

تَلَا حَفَى: ایک دوسرے کے پیچھے ہونا۔ تَلَا حَفَتِ الْمَطَايَا: سوار یوں کا بعض کا بعض سے ملنا۔

الْبَحْفُ: بہ ملنا یا چلنا۔ اسْتَلْحَفَهُ: اپنے خاندان میں ملانا۔ اسْتَلْحَفَ الرَّجُلُ: وادی کی نکلی ہوئی زمین میں کھیتی کرنا۔

السَّحْفُ: جو اپنے پہلے کے ساتھ ملے۔ پھل جو پہلے پھل کے بعد ہو۔ ج الْحَاقُ: السَّحْفُ: قوم جو اپنے سے پہلی قوم کے ساتھ اُس کے گزر جانے کے بعد لاحق ہو۔ لَحِقَ الْغَنَمُ: بکری کے بچے (..... وَالْمُلْحَقُ) شئ زائد۔ تحفہ کتاب۔

السَّحَاقُ: وادی کے وہ قطعات جہاں پانی خشک ہو جانے کے بعد زراعت کریں۔ مفرد اللحق ہے۔

اللِّحَاقُ: کمان کا غلاف۔ اللِّحَاقُ: فَا: پہلے پھل کے بعد کا پھل۔ اَبْوُ لَاحِقٍ: باز۔

اللاِحِقَةُ: لاحق۔ لاحق: کامونٹ۔ پہلے پھل کے بعد کا پھل۔ ج لَوَاحِقُ.

السُّوَيْحِقُ: باز کے انواع میں سے ایک شکاری پرندہ۔ جس کی پینہ میانی اور سید سفید ہوتا ہے۔

السُّلْحَاقُ: تیز تیر پھینکنے والی کمان اونٹنی جس سے اونٹ آگے نہ بڑھ سکیں۔

السُّلْحِقُ: خاندان میں ملایا ہوا۔ لَحَكَ (ف) لَحْكًا وَلا حَكَ وَتَلَا حَكَ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: چپکانا۔ تَلَا حَكَ الشَّيْءُ: ایک دوسرے میں داخل ہونا۔ تَلَا حَكَ الشَّيْءَانِ: عمارت کا مضبوط ہونا۔ وَلَحَكَ الصَّبِيُّ: بچے کے منہ میں دوایا کتا۔

لَوْ حَكَ فَقَارَ ظَهْرِهِ: بعض کا بعض میں داخل ہونا۔ لَحَكَ (س) لَحْكًا: الْفَعْسَلُ: شہد چائنا۔ اللِّحْكَةُ وَاللِّحْكَاءُ: چھپکلی کی مانند ایک کبڑا

جو ریت میں رہتا ہے۔

اللجک: وہ شخص جسے انزال دیر میں ہو۔

الملاجک: بنگیاں۔

لحلخ وتلحلخ القوم: ایک جگہ پر قائم

رہنا۔ دور چلا جانا۔

الخلخ: تنگ جگہ۔

المحلخ: قوم کا بڑا سردار۔

لحَم (ن) لَحْمًا الْأَمْرُ: مضبوط کرنا۔

القصابُ العظم: قصابی کا بڑی سے گوشت

کو جدا کرنا ہ: نقصان دینا۔ تکلیف

پہنچانا۔ الصائغ الفضة: سنا کر چاندی کو

درست کرنا۔

لَحْمَهُ (ف) گوشت کھلانا۔

لَجَم (س) لَحْمًا بِالْمَكَانِ: لازم ہو کے

رہنا۔ الضفر ونحوه: گوشت کا خواہش

مند ہونا۔

لَجَم (س) لَحْمًا وَلَحْمَهُ (ك) لَحَامَةٌ:

موتا ہونا جسم میں زیادہ گوشت والا ہونا۔

گوشت کا بہت خواہش مند ہونا۔

لَجَم لَحْمًا: قتل کیا جانا۔ صفت لَجِيمٌ

لَا حَمَّ الْحَبْلُ: رتی مضبوط بنا۔ الشئ

بِالشئ: ملانا۔ لَاحِمٌ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ: ایک کو

دوسرے کے ساتھ چپکانا۔

الْحَمُّ: الثوب: کپڑا بننا الشعر: اشعار

کہنا الزرع: کھیتی میں دانہ بیھنا بَيْنَ

السُّومِ شَرًّا: قوم کے درمیان فساد کر دینا

الشئ بالشئ: ملانا ہ: بصرفہ: تیز نظر

سے دیکھنا۔ گھورتا۔ الْحَمُّ الرَّجُلُ: تمکین کرنا

..... فَلَتَا الْأَرْضُ: زمین پر پٹک دینا۔

پھینا ڈر دینا ہ: عرض فلان: گالی دینے کا

موتخ دینا۔ الْحَمَّتِ الذَّابَّةُ: بٹھہر جانا۔

آگے نہ بڑھنا۔ الْحَمُّ بِالْمَكَانِ: اقامت

کرنا الرَّجُلُ: گھر میں بہت گوشت والا

ہونا السُّومُ: گوشت کھلانا الشئ:

درست کرنا۔ الْحَمَّةُ الْفِتَالُ: گھیر لینا اور

رہائی نہ مانا۔ الْحَمُّ الرَّجُلُ: مرنا۔

تلاختم القوم: باہم مقابلہ کرنا۔ تَلَاخَمَتِ

السَّجَّةُ: زخم کا بھر جانا اور درست ہو جانا

(.....) وَالنَّحْمُ (الشئ): جڑ جانا اور درست

ہونا السَّخَمَتِ الْحَرْبُ بَيْنَهُمْ:

گھسان کی جگہ ہونا۔ "النَّحْمُ الْحَرْبُ"

لِلْمُرَّةِ" زخم بھر جانا اور درست ہو جانا۔

إِسْتَلَّحَمَ الطَّرِيقُ: راستہ کا کشادہ ہونا۔

الطَّرِيقُ أَوْ الطَّرِيقَةُ: پیچھے پڑنا

الخطب فلاننا: مشغول کر دینا الزرع:

گنجان ہونا۔ أَسْلَحِمَ الرَّجُلُ: جنگ میں

پھنس جانا اور رہائی نہ ملنا۔

اللَّحْمُ وَاللَّحْمُ مِنْ جَسْمِ الْحَيَوَانَ:

گوشت۔ ج لَحَامٌ وَلَحْمٌ وَلَحْمَانٌ

وَلَحْمَانٌ وَاللَّحْمُ: لحم كل شئ: مغز

لَحْمُ الْبَحْرِ: ایک کپڑا ہے۔ کہا جاتا ہے

"أَكَلْتُ لَحْمِي وَرَتَعْتُ لَحْمِي" یعنی میری

غیبت کی۔

اللَّحْمَةُ: گوشت کا ایک ٹکڑا۔ لَحْمَةٌ

الثوب: کپڑے کا پانا۔

اللَّحْمَةُ: قرابت۔ کپڑے کا پانا۔ باز کوس

کے شکار سے جو کھلایا جائے۔ ج لحم.

اللحام: جس سے بچھن کو درست کیا جائے۔

اللحام: گوشت بیچنے والا۔

الملاحم: گوشت کھلانے والا۔ جس کے پاس

گوشت ہو۔ باز لَاحِمٌ: گوشت کھانے والا یا

گوشت کا خواہش مند باز۔

المحجم: جسم میں زیادہ گوشت والا۔ گوشت کا

زیادہ خواہش مند۔ باز لحم: گوشت کھانے

والا یا گوشت کا خواہش مند باز۔ اللحم:

شیر۔

اللاجيم: جسم میں زیادہ گوشت والا۔

متقول۔ اور کہا جاتا ہے "هَذَا لَحِيمٌ"

ذاک" یعنی یہ اس کے موافق اور ہم شکل

ہے۔

الملاحم: منع۔ گوشت کھانے کا عادی۔ قوم

کے ساتھ ملا ہوا قیدی۔ ایک قسم کا کپڑا جس

کا تانا ریشم کا اور پانا غیر ریشم کا ہوتا ہے۔

الملاحم: فا۔ گوشت کھلانے والا یا جس کے

پاس گوشت زیادہ ہو۔

الملاحمة: گھسان کی جگہ کا موقع۔ ج

ملاحم.

الملاحم من الجبال: مضبوط بنی ہوئی

رتی۔ کہا جاتا ہے شجعة ملاحمة زخم کہ

جس میں گوشت پھٹ جائے اور پھر جڑ

جائے۔

المستلجم: فا۔ شیر۔

لَحْنٌ (ف) لَحْنًا وَلَحْنًا وَلَحُونًا وَلَحَانَةٌ

وَلَحَانِيَةٌ فِي كَلَامِهِ أَوْ فِي الْقِرَاءَةِ: اعرابی

غلطی کرنا۔ صفت لَاحِنٌ وَلَحَانٌ وَلَحَانَةٌ

(.....) لَحْنًا يَفْلَانُ: کسی سے اشارہ کنایہ میں

بات کرنا تاکہ دوسرا نہ سمجھ سکے۔ صفت

لَاحِنٌ: اور لَحَانٌ: نہیں کہا جاتا الیہ: قصد

کرنا۔ مائل ہونا قولہ: سمجھنا۔

لَاحِنٌ (س) لَحْنًا الرَّجُلُ: ذہین ہونا۔ اپنی

دلیل سے خبردار ہونا الکلام: سمجھنا۔

لَحْنٌ: غلطی کی طرف منسوب کرنا۔ لَحْنٌ فِي

القرءة: خوش آوازی کے ساتھ پڑھنا۔

لَاحِنٌ السُّومُ: گفتگو کو ایک دوسرے پر

دہرانا۔

أَلَحْنٌ فَلَانًا الْقَوْلُ فَلَحْنَةٌ: اس نے فلاں کو

بات سمجھائی پس وہ سمجھ گیا۔

اللحن: محس من الأصوات: موزوں

آواز سر۔ ج الحان والحون. صناعة

الألحان: فن موسیقی لحن الکلام: مضمون

کلام۔ اللحن فی الکلام: اعراب و بنا کی

غلطی۔

اللحن: لغت۔ سمجھ۔

اللحن: زیرک۔ سمجھدار۔

الملاحم: فا۔ نتائج کلام کا جاننے والا۔

الملاحمة: وہ شخص جس کی غلطی اوگ بہت

پکڑیں۔

الملاحمة: بہت غلط بولنے والا۔ جو لوگوں کی

غلطی بہت پکڑے۔

الألحن: بہت زیادہ سمجھدار۔ خوش آوازی

سے گانے والا یا پڑھنے والا۔

لحسا یلخو لحووا والسخی اللحاء
الشجرۃ: درخت کو چھیننا۔ لحاء: گالی
دینا۔

البلخی: بکڑی پھیلنے کا اوزار۔

لحوج لحوجة علیہ الخبر: گڑ بڑ کرنا اور
ضمیر کے خلاف ظاہر کرنا۔

لخی بلخی لخی الشجرۃ: درخت کو
چھیننا۔ فلانا: ملامت کرنا۔ گالی دینا۔ عیب
نکالنا۔

صفت قاعلی لاح: صفت مفعلی ملحی: کہا
جاتا ہے "لحا لله فلانا" اللہ فلاں پر لعنت
کرے۔

لاخی لحاء وملاخاة الرجل: جھگڑا کرنا
اور اسی سے مثل ہے "من لا حاک فقد
عاداک" جس نے تم سے جھگڑا کیا اس نے
تم سے دشمنی کی..... فلانسا: دفع کرنا۔ منع
کرنا۔ ایک دوسرے کو ملامت کرنا۔

الخی الحاء: قابل ملامت کام کرنا۔ الغوذ
: چھیل جانے کے قابل ہونا۔

تلخی تلخینا: ٹھوڑی کے نیچے عمامہ لیٹنا۔

تلاخی تلاخیا القوم: باہم لہن کرنا۔ باہم
گالی گلوچ کرنا۔ باہم ملامت کرنا۔ باہم
بغض رکھنا۔ باہم جھگڑنا۔

السخی اللحاء: داڑھی اگنا۔ داڑھی رکھنا
..... الغوذ: بکڑی چھیننا۔

اللخی: جیزا۔ داڑھی اگنے کی جگہ۔ لخیان:
دونوں جیزے۔ لخی القدیر: تالاب کے
دونوں کنارے۔ ج الحج ولحی.

البلحاء: مہس۔ بکڑی یا درخت کی چھال اور
امثال عرب سے ہے "لا تلذخل بین
العصا ولحالیها" لالھی اور اس کی چھال
کے درمیان داخل مت ہوان دودوستوں
کے حق میں بولتے ہیں جن کے درمیان کوئی
فساد نہ کراسکے۔

اللخیان: لمبی داڑھی والا۔ مؤنث لخیانۃ.

البلخیۃ: داڑھی۔ ج لخی ولخی: اور
نسبت کے لئے لحووی. لخیۃ الحنار: پر

سیاوشاں (نام ایک دوا کا) لخیۃ النیس:
نام ایک نباتات کا جس کے پتے گندنا کے
پتے کے مانند ہوتے ہیں لیکن اس سے بلند
ہوتے ہیں۔

البلخیان: تھوڑا پانی۔ سیلاب کے بنائے
ہوئے گڑھے۔ واحد لخیانۃ.

الالخی والبلخیانی: لمبی یا بڑی داڑھی
والا۔

لخۃ (ن) لخا: طمانچہ مارنا۔ لخی الخیر:
پوری خبر معلوم کرنا..... فی الکلام: مشہور اور
سرست بات کہنا..... ہ بالطیب: خوشبو لگانا

..... فی الجبل: پہاڑ میں پیچھا کرنا..... فی
الحفر: کھودنے میں جھکنا۔

لخۃ لخا ولخیخا ولخیخت (س)
لخۃ عینہ: زیادہ آنسو اور موٹی پلکوں والا
ہونا۔ صفت لخیخۃ.

السخۃ الأمس: خلط ملط ہونا۔ کہا جاتا ہے
"السخ علیہ الأمر" معاملہ ان کے اوپر خلط
ملط ہو گیا۔

العشب: مہسی و گھنجان ہونا۔

تلاخ الوادی: تنگ وادی ہونا اور درختوں
سے بھری ہوئی ہونا۔

واد لاخ: تنگ اور گھنجان درختوں والی
وادی۔

السخۃ: ناک۔ امرأة لخۃ: گندی بد بودار
عورت۔ أصل لحوخ: عیب دار اصل۔

سکران ملسخ: بدست۔ ہوش و حواس
زائل شدہ واد ملسخ: بہت اور گھنجان
درختوں والی وادی۔

لخیۃ (ف ن) لخی ولخیۃ ملاخۃ:
طمانچہ مارنا..... الجاریۃ: جماع کرنا۔

الملخب: گوگل کا درخت۔ واحد لخیۃ.
الملخب: طمانچہ مارا ہوا۔ جھگڑوں میں
پھنسا ہوا۔

اللمخج: آنکھ کی بری کچھڑ۔

اللمخز: تیز چھری۔
لخصص (س) لخصا: اوپر کے موٹے

پوٹے والا ہونا۔ لخصص عینہ: آنکھ کے
ارگرد کا متورم ہونا۔ شخص کی صفت لخصص:
آنکھ کی صفت۔ لخصاء. ج لخصص.

لخصص الکلام: مختصر کرنا۔ خلاصہ کرنا۔ کھول
کر بیان کرنا اور کہا جاتا ہے "لخصص لئی
خبرک" مجھ سے اپنی خبر کو تھوڑا تھوڑا بیان
کرو۔

الشی: خالص لینا۔

اللمخصص: مہس۔ خلقتا۔ آنکھ کے پوٹے کی
موٹائی۔

اللمخصۃ: آنکھ کے اندر کا گوشت۔ ج
لیخاص.

اللمخصص: ظاہر۔ مختصر۔

ضرع لخصص: زیادہ گوشت والا تھن جس
سے دودھ مشکل سے نکلے۔ ورجل لخصص:
اوپر کے موٹے پوٹے والا مرد اور کہا جاتا
ہے "جفن لخصص" موٹا پوٹا۔

الملمخصص: مفع کہا جاتا ہے "هذا ملمخصص
ما قالوہ" یہ لوگ کے قول کا خلاصہ ہے۔

لخفۃ (ف) لخفا: زور سے مارنا۔

اللمخف: مہس۔ پتلے جھاگ۔

اللمخفۃ: سفید باریک پتھر ج لخاف.

لخمۃ (ن) لخمۃ: طمانچہ مارنا..... لخم
الشی: کانٹا۔

لخم (ف) لخمۃ الرجل: پڑ گوشت
چہرے والا ہونا۔

لاخمۃ لخمۃ وملاخۃ: باہم طمانچہ بازی
کرنا۔

اللمخۃ: سستی۔ افسردہ ولی۔

رجل لخمۃ ولخمۃ: افسردہ دل مرد۔
اللمخیم۔

اللمخۃ: سخت زمین میں دشوار گزار جگہ۔
اللمخام: ہڈیاں۔

لخین (س) لخینا: بد بودار ہونا..... الرجل:
فحش کلامی کرنا۔ بن ران وغیرہ میں بد بو
ہونا۔ صفت الخین مؤنث لخیانۃ. ج لخین.

لخیۃ. یا ابن اللخیانۃ: کہنا۔

السُّخْنُ: مص غیر محتون بچے کے تلفذ کی سپیدی۔

لُحَاهُ يَلُحُوهُ لُحُوًا: ناک میں دوائی چڑھانا۔

لُحَاهُ يَلُحِيهِ لُحِيًا وَالْحَاهُ: مال دینا۔ ناک میں دوائی چڑھانا۔ حلق میں دوایچکانا۔

لُحِي يَلُحِي لُحِيًا: ہرزہ سرائی کرنا۔ بکواس کرنا۔

لَاخِي لُحَاءٌ وَمَلَأَخَاةَ الرَّجُلِ: دوستی کرنا۔ مخالفت کرنا۔ باہم نرمی برتنا۔ فُلَانًا عَلِيَّ فُلَانٍ: اکسا۔ بھڑکانا۔ بہہ چغل خوری کرنا۔

الْخِي لُحِيًا: الصَّبِيُّ: تر کردہ روٹی کھانا اسم لُحَاءٌ ہے۔

اللُّحَا وَاللُّحِي وَاللُّحَاءُ وَالْمُلُحِي: جس سے ناک میں دوایچڑھائی جائے۔

الْأَلُحِي: ہرزہ سرا۔ بکواس کرنے والا۔ اللُّحِي وَاللُّحِي مِنَ الْجَمَالِ: جس کا ایک گھٹنا دوسرے سے بڑا ہو۔

السُّخُوَاءُ الْأَلُحِي: کاموث۔ عقاب کہ اس کی چونچ کے اوپر کا حصہ نیچے سے بڑا ہو۔

لُدًّا (ن) لُدًّا وَلَاذًا وَمَلَأَقَةً وَاللُّدُّ الرَّجُلُ: سخت جھگڑا کرنا اور غاب ہونا۔ لُدُّهُ عَنِ الشَّيْءِ: منع کرنا۔ لَاذَعْنَهُ: بدانت کرنا۔

لُدًّا (ن) لُدًّا وَلُدًّا وَاللُّدُّ الرَّجُلُ: منہ کے کنارے سے دوایچکانا۔ لُدًّا لِلدُّوْدِ: منہ کے کنارے سے پلائی جانے والی دوایتیار کرنا۔

اللُّدُّ: سخت جھگڑا پانا۔ اللُّدُّبُ: نالنا۔ کہا جاتا ہے اللُّدُوْتُ بہہ میں نے اس سے جھگڑا کرنے میں سختی کی۔

لُدًّا (س) لُدًّا: بہت جھگڑا ہونا۔ صفت اللُّدُّ: کہا جاتا ہے "هُوَ اللَّدْبِيُّ اللَّدُّ" یعنی وہ بہت ہی سخت جھگڑا ہے۔

اللُّدُّ: حیران کرنا۔ لُدًّا بہہ بدنام کرنا۔

تَلَدَّدَ: متحیر ہونا۔ دائیں بائیں دیکھنا۔ فی الْمَكَانِ: بھبھرنا۔

التَّدُّ: منہ کے کنارے سے دوایچکانا۔ عَنِ الشَّيْءِ: نائل ہونا۔ ٹیزھا ہونا۔

اللُّدُّ: مص۔ بورا۔ اللُّدُّ: مص۔ سخت جھگڑا۔

اللُّدُّ وَاللُّدُّ وَاللُّدُّودُ وَاللُّدْبِيُّ: رج الذَّة وَالْأَلَّةُ: مَوْنُث لُدًّا. رج لُدًّا وَلُدًّا.

وَالْأَلَّةُ وَاللُّدُّ وَاللُّدُّ: سخت جھگڑا۔ اللُّدْبِيُّ وَالسُّدُّودُ: دو جو منہ کے کنارے سے پکائی جائے۔ اللُّدْبِيُّ: کالوں کے نیچے گردن کے دونوں طرف کے کنارے ہر چیز کے

دونوں جانب۔ کہا جاتا ہے "فَالَهُ عَنْهُ مُخَضَّدٌ وَلَا مُلْتَصَّدٌ" یعنی اس کے لئے کوئی چارہ نہیں۔

المُتَلَدَّدُ: گردن۔ لُدْحَهُ (ف) لُدْحًا: پیٹھ پر آہستہ آہستہ تھکی دینا۔

لُدْسٌ (ن) لُدْسًا الشَّيْءُ: چائنا۔ ہندیہ: مارنا۔ ہندیہ بخججہ: پتھر مارنا۔

لُدْسٌ الْخُفُّ: بیوندگانا۔ درست کرنا۔

الَّذَسْبُ الْأَرْضُ: کچھ نباتات اگانا۔ اللُّدْسُ: سُت وزرم۔

اللُّدْبِيُّ: مونا۔ رج اللُّدَّاسُ. اللُّدَّاسُ: گھٹلی توڑنے کا پتھر۔ رج مَلَدَّاسُ.

لُدْعُهُ (ف) لُدْعًا وَتَلَدَّاعًا: ڈسنا کہا جاتا ہے "لُدْعُهُ بِكَلِمَةٍ" یعنی اس نے اسے طعن و تشنیع کیا۔

الْدُّغُ: العَقْرَبُ فُلَانًا: ڈسنے کے لئے بچھو چھوڑنا۔ بچھو سے ڈسوانا۔

اللُّدَّاعُ: قا۔ مَوْنُث لَادِعُهُ رج لُدْعُ. اللُّدَّاعَةُ: لدغ کا اسم مرہ۔

اللُّدَّاعُ: کائیا اس کا نوکیلا کنارہ۔ السُّدَّاعَةُ مِنَ الرَّجَالِ: طعن و تشنیع کرنے والا۔

اللدَّبِيغُ: ڈسا ہوا (مذکر مَوْنُث) رج لُدْعِي

وَلُدْعَاءٌ اور کہا جاتا ہے "هُم قَوْمٌ لُدْعِي وَلُدْعَاءٌ" وہ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔

الْمَلْدُغُ: وہ شخص جس کی عادت طعن و تشنیع کی ہو۔

لُدْكُ (س) لُدْكًا وَلُدْكَاهُ: پیکنا۔ لُدْعَهُ (ض) لُدْعًا: طمانچہ مارنا۔ کسی بھاری چیز سے مارنا جس کی آواز سنائی دے۔

الْمُخْبِرُ مِنَ الْمَلْمَةِ: روٹی کو بھوجھل سے نکالنا (.....) وَلَدَّمِ الْقَوْبُ: کپڑے میں بیوندگانا درست کرنا۔

الذَّمْتُ عَلَيْهِ الذَّمِّي: لگا تار بخار رہنا۔ تَلَدَّمُ: بوسیدہ ہونا۔ بیوندگانے کے قابل ہونا۔ الْقَوْبُ: کپڑے میں بیوندگانا۔

الذَّمُّ: پریشان و مضطرب ہونا۔ الذَّمَّتِ الْبَيْسَاءُ: نوح و ماتم میں منہ پر طمانچہ مارنا۔ الذَّمَّةُ: مارنا اور بنانا۔

الذَّمُّ: مص پتھر کے زمین پر گرنے کی آواز۔

الذَّمُّ: عزت۔ قرابت۔ اللذَّمُ: قا۔ رج لذَّم (کنکھام و خذم)

الذَّمُّ: بیوند۔ الذَّمُّ: بیوندگانے والا۔

الذَّمُّ: من الثَّيَابِ: بیوندگانا ہوا کپڑا۔ الذَّمُّ: بے وقوف۔ سُت۔ پر گوشت اُمّ مِلْدَمُ: بخار (.....) وَالْمِلْدَمُ: گھٹلی توڑنے کا پتھر۔

لُدْنٌ (ك) لُدْنًا وَاللُّدْنَةُ: نرم ہونا صفت لُدْنٌ مَوْنُث لُدْنَةٌ رج لُدْنٌ وَلُدْنٌ. لُدْنٌ أَخْلَاقُهُ: نرم اخلاق ہونا۔

لُدْنٌ الشَّيْءُ: نرم کرنا۔ لُدْنٌ فِي الْأَمْرِ: بھبھرنا۔ لُدْنٌ ثَوْبُهُ: تر کرنا۔

تَلُدْنِي: بھبھرنا۔ بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ عَلَيْهِ: دیر لگانا۔ کہا جاتا ہے "تَلُدْنْتُ عَلَى رَأْسِي" جبکہ وہ نہ چلے۔

اللُّدْنُ مِنَ الطَّعَامِ: خراب گیہوں جس کی روٹی اچھی نہ کئے اور کہا جاتا ہے "هُوَ لُدْنٌ

الْخَلِيقَةِ“ وہ نرم طبیعت پسندیدہ اخلاق والا ہے۔
 لَذْنٌ وَلَذْنٌ وَلَذْنٌ وَلَذْنٌ وَلَذْنٌ وَلَذْنٌ.
 غَنَدٌ: کے معنی میں ظرف زمان و مکان ہے۔
 مگر غَنَدٌ: سے زیادہ قرب پر دلالت کرتا ہے
 اور اس سے انحصار ہے اور جنتی ہے۔ کہا جاتا
 ہے ”إِسَى إِلَيْهِ لَذْنَةٌ“ مجھے اس کے پاس
 حاجت ہے۔
 اللَّذِي الْإِدَاءُ: زیادہ ہم عمر والا ہونا۔
 لَذِي: ظرف مکان ہے یعنی ہے اور معنی میں
 لَذْنٌ کے ہے۔
 الْبِلْدَةُ: ہم عمر یا جس کی ایک ساتھ پرورش
 ہوئی ہو۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ لِدَيْتِي“ وہ میرا ہم
 عمر ہے۔ ج لَذَاتٌ وَلِذُونٌ. الْبِلْدَةُ: وقت
 ولادت۔ (کلمہ یا مادہ لذ سے ہے) جیسے
 عِدَّةٌ وَعَدَةٌ:۔
 لَذٌ (س وض) لَذَاذَاً وَلَذَاذَةٌ الشَّيْءُ: خوش
 مزہ ہونا۔ مرغوب ہونا۔ لذیذ ہونا۔ صفت
 لَذٌ وَلَذِيذٌ.
 لَذٌ (س) لَذَاً وَتَلَذُّ وَالتَّلَذُّ الشَّيْءُ وَبِهِ
 وَاسْتَلَذَّ الشَّيْءُ: لذیذ پانا۔
 لَذَذَةٌ: لذیذ بنانا۔
 تَلَذَّذًا: ایک دوسرے سے لذت اٹھانا۔
 السَّرُّ: مضم۔ لذیذ۔ مرغوب۔ نیند۔ کہا جاتا
 ہے ”رَجُلٌ لَذِيذٌ شَيْخِي فَتَلَذُّوا كَرْنَهُ وَاللَّـ
 الْكَلْبُ: زیادہ لذیذ۔
 السَّلْدَةُ: خوشی۔ مزہ۔ حصول مرغوبات۔ ج
 لَذَاتٌ: شراب۔
 السَّلْدِيذُ: مرغوب۔ مزیدار۔ شراب۔ ج
 لَذُوٌ وَلِذَادٌ.
 السَّلْرُ: لذت کی جگہ۔ ج مَلَاذٌ.
 السَّلْدَةُ: خواہش۔ ج مَلْدَاتٌ.
 لَذَبٌ (ن) لَذُونًا وَلاَذَبٌ مَلَاذِبَةٌ
 بِالْمَمْكَانِ: اقامت کرنا۔
 لَذَجُهُ (ن) لَذَجًا: سوال میں اصرار کرنا
 لَذَجُ الْمَاءِ: گھونٹ لگانا۔
 لَذَعٌ (ف) لَذَعًا: فَلَانًا بِلَسَانِهِ: زبَان

سے تکلیف پہنچانا۔ لَذَعَتِ السَّارُ الشَّيْءُ:
 آگ کا جھلس دینا۔ جلا دینا۔ کہا جاتا ہے
 ”لَذَعُ الْحُبِّ قَلْبِي“ محبت نے اس کے دل
 کو تکلیف پہنچائی۔
 لَذَعُ الْبَسْمِ: داغنے کے لوہے کے ایک
 کنارے سے داغنا..... الرَّجُلُ بِذَكَابِهِ:
 جلدی سمجھنا۔ السَّطَاوِيُّ: پرندہ کا پھڑ پھڑا کر
 بازوؤں کو تھوڑا سا حرکت دینا۔
 تَلَذَّعٌ: دائیں بائیں متوجہ ہونا۔ ذہین ہونا۔
 تمييز ذہین ہونا۔ تَلَذَّعَتِ السَّارُ: آگ
 بھڑکنا۔
 التَّلَذُّعُ: درد میں سوزش ہونا۔
 اللَذَاذِعَةُ: لاذع کا مَوْنُثٌ۔ ج لَسَاوِذِعُ
 لَسَاوِذِعُ السَّكَاوَمِ: تکلیف دہ گفتگو۔ کہا جاتا
 ہے ”نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ لَسَاوِذِعِهِ“ ہم اس کی
 تکلیف دہ گفتگو سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔
 السَّلْدَاعُ: اسم مبالغہ۔ کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ
 سَلْدَاعٌ لَذَاعٌ“ یعنی بڑا خلاف وعدہ۔ اس
 لئے کہ زبَان سے خیر کا وعدہ کرتا ہے پھر
 خلاف وعدگی کر کے تکلیف پہنچاتا ہے۔
 السَّلْوُذِعُ وَاللَّوْذِعِيُّ: تمييز ذہین۔ تمييز خاطر۔
 فصیح۔
 اللَذَائِقِيَّةُ: شام کے ایک شہر کا نام۔ اور نسبت
 کے لئے لَذَائِقِيٌّ وَلاَذِيقِيٌّ.
 لَذَلَذٌ: چست و پھر تیرا ہونا۔
 اللَذَلَاذُ: چست و پھر تیرا۔ بھیڑیا۔
 لَذِمَةٌ (س) لَذِمًا الشَّيْءُ: تعجب میں ڈالنا۔
 بوسہ دینا۔
 لَذِمٌ (س) لَذِمًا بِالْمَمْكَانِ: چمٹے رہنا.....
 بالشَّيْءِ: حریص ہونا۔ شیفٹ ہونا۔
 اللَّذِمَةُ الشَّيْءُ وَبِهِ: حریص بنانا۔ شیفٹ کرنا۔
 هُ يَفْلَانُ: لازم کرنا۔ اللَّذِمُ بِالْمَمْكَانِ:
 ثابت رہنا اور کہا جاتا ہے ”الَّذِمُ بِفُلَانٍ
 حَمْرًا مَكَكٌ“ یعنی ہمیشہ کرو۔
 اللَّذِمُ بِفُلَانٍ: فریفتہ کیا جاتا۔
 السَّلْمَقَةُ: گھر سے جدا نہ ہونے والا۔ کسی چیز
 کے ساتھ ہمیشہ رہنے والا۔

رَجُلٌ لَذِمٌ وَلَذِيمٌ وَمِلْدَمٌ بِالشَّيْءِ: چیز کا
 شوقین۔ المِلْدَمُ: بہادر۔
 اللَّادِنُ وَاللَّادِنَةُ: گوند کی ایک قسم۔
 لَذِي يَلْدِي لَذِي بِالْأَمْرِ: لازم ہونا۔ جدا نہ
 ہونا۔ شیفٹ ہونا۔
 اللَّذِي: اسم موصول ہے اور اس میں پانچ
 لغات ہیں۔ اللَّذِي وَاللَّذِي وَاللَّذِي وَاللَّذِي
 وَاللَّذِي: مَوْنُثُ الشَّيْءِ (مادہ دل ت ی میں ذکر
 ہو چکا) مَثْبُتٌ السَّلْدَانُ اللَّذَا وَالسَّلْدَانُ ج
 اللَّذِيْنَ وَاللَّادِنُ وَاللَّادِنُ: اور بعضوں نے
 کہا ہے کہ اللَّذُونُ: حالت رفعی میں اور اللَّذِيْنَ
 بہ: حالت نصی جبری میں۔ اور اللَّذِي: کئی
 تصغیر اللَّذِيَانِ: اور مَثْبُتٌ كِ اللَّذِيَانِ: اور جمع کی
 اللَّذِيُونُ.
 لَذُو (ن) كَلْبًا وَلَذُوًا وَلَذُوًا. الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ:
 باندھنا۔ ملانا۔ لازم کرنا..... الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ
 : ملنا۔ الْقَوْمُ: اکٹھا ہونا۔ بھیڑ کرنا۔ لَذُوَةٌ
 بِالرُّمِيحِ: تیز ہونا۔
 هُ إِلَى تَحْدَا: مجبور کرنا۔
 لَذُوَ اللَّهُ فَلَانًا: مضبوط جسم والا بنانا۔
 لَا زَلْزَاذٌ وَمَلَاذَةٌ: چمٹنا اور جھگڑے میں تنگ
 کرنا۔
 الزَّرُّ الشَّيْءِ: باندھنا اور چمٹانا۔
 الزَّرُّبَةُ: چمٹنا۔ ملنا۔
 اللُّوُ: مضم۔ دروازہ کا حلقہ۔
 السَّلْزُ وَالسَّلْزَاذُ: مضم۔ دروازے کی بلی۔
 سخت جھگڑا۔
 السَّلْمَرُ: چمڑے یا سٹیل کی سوراخ دار و اش
 جو بیچ کے نیچے مضبوطی کے لئے ڈالی جاتی
 ہے۔
 السَّلْوُ: چمٹنے والا۔ کہا جاتا ہے ”فَلَانٌ لِسُرِّ شَرِّ
 وَلِسُرِّ شَرِّ“ فلاں شر کے ساتھ چمٹا ہوا ہے
 اس سے جدا نہیں ہوگا۔
 اللزَاب: سرو کے درختوں میں سے ایک بڑا
 درخت اس کے پتے شریان درخت کے
 پتوں کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اس کی کٹوری
 عمدہ قسم کی کٹوری ہوتی ہے۔

عِشْ لِرْزُ: تنگ زندگی۔

الذَّيْرَةُ: لُيُو: کامونٹ ج لُزَاوِزُ، اللُزَاوِزُ: سین کی ہڈیاں۔

الْمَلْزُومَةُ: سخت جھگڑاؤ۔ (مذکر و مؤنث)

لُزَا (ف) لُذَا وَالزَّوْ لُزَا: الْاِئْتَاءُ: برتن

بھرنے..... الْمَشَابِيهُ: جانور کو سیر کرنا۔

لُزَا الْاِئْتَاءُ: دینا۔ کہا جاتا ہے "لُزَاؤُهُ اُمَّهُ" اس

کی ماں نے اس کو جتا۔

تَلَزَا الْاِئْتَاءُ: برتن کا بھرنے جانا۔

لُزِب (ن) لُزُوْنَا: مضبوطی سے قائم رہنا۔

..... بِه: چمٹنا۔ لُزِمَتِ السَّنَةُ: خشک سالی

ہونا۔ قُحْطُ ہونا۔

لُزِمَتْ (ض) لُزِيْنَا. الْعَقْرُبُ فُلَانَا: بچھو کا

ڈنٹا۔

لُزِب (س) لُزِيْنَا وَ لُزِب (ك) لُزِيْنَا

وَلُزُوْنَا الْبَطِيْنُ: چپکنے والی اور سخت ہونا۔

لُزِب الشَّيْءُ: بعض کا بعض میں داخل ہونا۔

تَلَازَب الشَّيْءُ: تہ بہ تہ ہونا۔

اللزب: تنگ راستہ۔

اللزب: فَا۔ ثَابِت۔ کہا جاتا ہے "صَارَ

الْأَمْرُ ضَرْبَةَ لَزَبٍ" یعنی لازم و ثابت ہو

گیا۔ طَبِيْنٌ لَزَبٌ: ہاتھ میں چپکنے والی مٹی۔

اللزب: کم۔ تَمَوَزَا: ج لُزَاب کہا جاتا ہے

"هُوَ عَزَبٌ لَزَبٌ" اس کے نہ جو رو ہے نہ

جاتا۔

اللزب: سختی۔ قُحْطُ۔ ج لُزِب وَ لُزَبَاتٌ سَنَةً

لُزِيْنَا: سخت سال۔

الْمِلْزَابُ: بڑا کنجوس۔ ج مِلْزَابِيْنٌ.

لُزِج (س) لُزِجَا وَ لُزُوْنَا: لیس دار ہونا۔

چپکنے والا ہونا۔ صَفَتْ لُزِج: لُزِج الْعَسَلُ

بِاصْبَعِهِ: شہد کا انگلی میں چپکنا۔

تَلَزَج: چپکنے والا ہونا..... الْبِقْلُ: نرم ہونے

کی وجہ سے بعض کا بعض پر جھکننا..... السَّدَابَةُ

الْبِقُولُ: سبزی کے لئے جانا۔

اللزوجة: چپک۔ چسپیدگی۔

رَجَلٌ لُزِجَةٌ وَ لُزِجَةٌ لُزِجَةٌ: گھری پر رہنے

والا۔ جدا نہ ہونے والا۔

لُزِق (س) لُزُوْنَا وَ التَّزِقُ بِه: چپکنا

..... لُزِقْنَا) الرِّبَةُ بِالْحَبِّ: پیاس کی وجہ

سے پھپھوڑے کا پہلو سے چپکنا۔

لَا زَقَهُ لُزَا فَا وَمَلَا زَقَةً: چپکنا۔

الزَّقَةُ بِه: چپکنا۔

لُزِق الشَّيْءُ: چپکنا۔ بغیر مضبوطی کے کام

کرنا۔

السُّزُقُ: قریب بہ پہلو۔ کہا جاتا ہے "هُوَ

لُزِقِيٌّ أَوْ بِلُزِقِيٍّ" وہ میرے پہلو میں ہے۔

اللزاق: مصل۔ جس سے چپکایا جائے۔ جیسے

لِئِي: گوند وغیرہ۔ لِبْدَاقِي الذَّهَبِ وَ لِزَاقِي

الْحَجَرِ وَ الْبِزَاقِي الرُّحَامِ: دواؤں کے نام۔

اللزاق: جماع۔

أَذُنٌ لُزِقَاءُ: کان جس کا کنارہ سر سے ملا ہوا

ہو۔

السُّزُوقُ وَ اللَّا زُوقُ: زخم کا مرہم جو اچھے

ہونے تک چپکا رہے۔

السُّزُوقُ: قریب بہ پہلو۔ کہا جاتا ہے "هُوَ

لُزِيقِيٌّ" وہ میرے پہلو میں ہے۔

اللزِيقُ: سمندری گھونگا۔

اللزِقَةُ: درد والے مقام پر مرہم وغیرہ لگانے

گئی۔

السُّزُقُ وَ اللُّزِيقَاءُ وَ اللُّزِيقِيُّ: خود رو گھاس

جو بارش کی صبح میں پتھروں کے نیچے نکل

آئے۔

الْمُلْزِقُ: خاندان میں ملا ہوا۔ مند بولا بیٹا۔

لُزِيْك (س) لُزِيْكَا الْجُزُوحُ: بغیر اچھا

ہوئے گوشت کا اوپر سے برابر ہو جانا اور یا

صواب لہک دال ہملہ سے ہے۔

لُزِمَ (س) لُزُوْنَا لُزْمًا وَ لُزَامًا وَ لُزَامًا

وَلِزَامَةً وَ لُزْمَةً وَ لُزَامَانَا الشَّيْءُ: لازم رہنا

..... بَيْتُهُ: گھر سے جدا نہ ہونا..... هُ الْمَالُ:

واجب ہونا..... الْغَرِيمُ وَ بِه: قرض دار کو

چمٹے رہنا..... الْاَفْرُ: حکم واجب ہونا.....

كَمَا عَسَنَ كَمَا: لازم آنا۔ نتیجہ نکلنا

..... لُزِمَا الشَّيْءُ: جدا کرنا۔ تمیز کرنا۔

لَا زَمَةً لِزَامًا وَمَلَا زَمَةً: چمٹے رہنا اور جدا نہ

ہونا۔

الزَّوْمُ الْاِئْتَاءُ الشَّيْءُ: لازم کرنا..... هُ الْمَالُ

وَالْعَمَلُ أَوْ بِالْمَالِ وَ بِالْعَمَلِ: واجب کرنا

اور کہا جاتا ہے "الزَّوْمُ خُصْمِي" یعنی میں

اپنے خصم پر حجت میں غالب رہا۔

الْفَزْمَةُ: بمعنی لَا زَمَةَ..... فُلَانَا: مردوں پکڑنا

..... الْعَمَلُ أَوْ الْمَالُ: اپنے اوپر واجب کر

لینا..... الْقَرْيَةُ أَوْ الْعُشْرُ أَوْ غَيْرُهُمَا: مال

گزارشی یا عشر کا ضامن ہونا (آخری معنی

میں مولد ہے)

إِسْتَلْزَمَ الشَّيْءُ: لازم سمجھنا۔ چاہنا۔

اللزام: مصل۔ موت۔ حساب۔ بہت چمٹنے

والا۔ فیصلہ..... وَاللَّزْمُ) فیصلہ کرنے والا۔

لُزَامُ: بِالسَّيِّئِ عَلَى الْكُفْرِ: لگاتار۔

بیوستہ۔ کہا جاتا ہے "ضَرْبَةُ لُزَامٍ" یعنی

لگاتار مار۔

اللزامة: جدا نہ ہونے والا۔ چھٹا رہنے والا۔

اللزومية: اسم ہے لزوم سے۔

الْمُلْزَمُ: بحری فوج کے اندر کمانڈر چھوٹا

افسر جو کہ لیفٹیننٹ کے برابر ہو۔

اللزام: فَا۔ مَوْنُثٌ لَّا زَمَةَ حَتَّى لُزُوْنَا مَ كَمَا جَاءَا

ہے "صَارَ الْأَمْرُ ضَرْبَةَ لَزَامٍ" جیسا کہا جاتا

ہے "ضَرْبَةُ لَزَابٍ".

الْمِلْزَمُ وَ الْمِلْزَمَةُ: لوہے یا کٹری کا شکنجہ

ج ملازم.

الْمُلْزَمُ: متفق۔ لازم کیا ہوا۔

لُزِنَ (ن) لُزِنَا وَ لُزِنَ (س) لُزِنَا وَ قَلَاوْنُ

الْقَوْمِ: جھوم کرنا۔ بھیڑ کرنا۔

اللُزْنُ: مصل۔ سختی۔ عِشْ لُزْنُ: تنگ زندگی

مساءً لُزْنٌ: وہ پانی جو مشکل سے حاصل ہو۔

مَكَانٌ لُزْنٌ وَ لُزْنٌ وَ مَلْزُونٌ: بھیڑ والی جگہ۔

اللُزْنَةُ وَ اللُّزْنَةُ: سختی لیلۃً لُزْنَةً: بھوک سردی

یا خوف کی وجہ سے مصیبت کی رات۔ ج

لُزْن.

زَمَانٌ لُزْنٌ: سخت زمانہ۔

الْأَلْزُورُ وَ الْمَلْزُورُ: (فارسی لفظ) ایک

کان جس کو زیورات میں لگایا جاتا ہے۔

اس کی عمدہ قسم صاف شفاف ٹیلی سرخ اور سبزی مائل ہوتی ہے۔
 اللَّازُورْدِيّ: جولا زور وکے رنگ میں ہو۔
 لَسْ (ن) لَسَا الْقَضْعَةُ: پیالہ چائنا۔
 لَسْتِ الدَّانِيَةُ الْكَلْبَاءُ: چوپایہ کا زبان کی اطراف سے چرنا..... الطَّعَامُ: کھانا۔
 لَسَّ السُّكَّانُ: ابتداءً نباتات کا نکالنا۔
 اللُّسَّاسُ واللُّسَّاسُ: ایک سخت اور زکھری گھاس۔ اللُّسَّاسُ: ہریاول جس کو چانور چر نہ سکے اور اطراف زبان سے چرے۔
 اللُّسُّسُ: ہوشیار و ماہر اونٹ والے۔
 لَسْبَهُ (ض) لَسْبَا الْخَيْتَةُ: سانپ کا ڈنبا۔
 لَسْبَهُ بِالسُّوْطِ: کوزے سے مارنا.....
 بِلَسَابِهِ: برا بھلا کہنا۔ سخت ست کہنا۔
 لَيْسَ (س) لَسْبَاهُ: چپکنا..... الْقَسْلُ: شہد چائنا۔
 النَّسْبُ الْحَيْثُ فُلَانًا: سانپ سے ڈسوانا۔
 زَجَلَّ لَسَابَةُ لِلنَّاسِ: لوگوں کو برا بھلا کہنے والا مرد۔ کہا جاتا ہے "ماتَرَكَ لَسُوبًا" ولسُوبًا" یعنی کچھ نہیں چھوڑا۔
 لَسَدًا (ض) لَسَدًا وَلَيْدًا (س) لَسَدًا الْإِنَاءُ: برتن چائنا..... الْعَسَلُ: شہد چائنا.....
 أَمَةُ: تھن کا سارا دودھ پی لینا۔
 فَصِيلٌ مَلْسَدٌ: بہت چاننے والا اور اونٹنی کا بچہ۔
 لَسَعَهُ (ف) لَسَعًا: ڈسنا۔ اور کہا گیا ہے کہ لَسَعٌ: ڈنگ سے ڈسنے کو اور لَسَدٌ: منہ سے ڈسنے کو کہتے ہیں۔ بچھو کے لئے تَلْسَعُ اور سانپ کے لئے تَلْسَدُ کا استعمال ہے۔
 لَسَعَهُ بِلَسَابِهِ: عیب لگانا۔ گفتگو سے تکلیف پہنچانا۔ لَسَعُ فِي الْأَرْضِ: جانا۔ سفر کرنا۔
 السَّعُ فُلَانًا عَقْرَبًا: بچھو سے ڈسوانا..... بَيْنَ الْقَوْمِ: دشمنی ڈالنا۔ بھڑکانا۔
 لَسِعَ الرَّجُلُ: خانہ نشین ہونا۔
 اللَّسَاعُ وَاللَّسَعَةُ: لوگوں کو گفتگو سے بہت تکلیف پہنچانے والا۔
 اللَّسِيْعُ: ڈسنا ہوا۔ ج لَسَعِيٌّ وَلَسَعَاءُ.

اللُّسُوعُ: بہت سے شکاف۔
 الجِلْسَعُ: ماہر راہبر۔
 المُلْسَعَةُ: خانہ نشین جو گھر سے جدا نہ ہو۔
 المُلْسَعَةُ: مقیم جماعتیں۔
 لَسِيقٌ (س) لَسُوقًا وَالسَّقِيُّ: چپکنا۔
 السَّقِيُّ: چپکانا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ لَسِيقِي" ولسِيقِي": وہ میرے پہلو میں ہے۔
 اللُّسُوقُ: دوا جو اچھے ہونے تک چپکی رہے۔
 المُلْسِقُ: خاندان میں ملایا ہوا۔ منہ بولا بیٹا۔
 لَسَمَ (ن) لَسَمًا: چکھنا۔ کہا جاتا ہے "ماتَلَسَمَ لِسَانًا" یعنی کچھ نہیں چکھا۔
 لَسِمَ (س) لَسَمًا: حیایا عاجزی کی وجہ سے چپ رہنا۔
 لَسِمَهُ لَسُومًا: لازم ہونا۔
 أَلَسَمَهُ كَلَامًا: سمجھانا۔ کلام سکھانا.....
 الطَّرْسِيُّ: راستہ اختیار کرانا۔ أَلَسَمَ وَإِسْتَلَسَمَ الشُّيْءُ: ڈھونڈنا۔
 لَسِنَ (س) لَسِنًا: فصیح و بلیغ ہونا۔
 لَسَنَ (ن) لَسِنًا فُلَانًا: بہتر بیان والا ہونا۔ برائی سے یاد کرنا۔ گفتگو میں غالب آنا۔ لَسَنَتُهُ الْعَقْرَبُ: ڈسنا..... ولسِنَ) الشُّيْءُ: کنارہ کو زبان کے کنارہ کی مانند بنانا۔ زبان کی شکل کا بنانا اور تیز کرنا۔
 لَأَسَنٌ مَلَأَسَةُ الرَّجُلِ: جھگڑے اور گفتگو میں غالب ہونا۔
 أَلَسَنَ فُلَانًا قَوْلًا أَوْ رِسَالَةً: پہنچانا۔ کہا جاتا ہے "أَلَسِنِي فُلَانًا وَالسِّنُّ لِي فُلَانًا كَذَا" و"كَذَا" یعنی فلاں کو میری فلاں فلاں بات پہنچا دو۔
 تَلَسَّنَ عَلَى فُلَانٍ: جھوٹ بولنا۔ افتر کرنا..... الْجَمْرُ: چنگاری سے زبان کی مانند شعلہ بلند ہونا۔
 اللِّسَنُ: زبان۔ لغت۔ گفتگو۔
 اللِّسَنُ: فصاحت۔
 اللِّسَانُ: زبان۔ (مذکورہ و مؤنث مذکر اکثر

استعمال ہوتا ہے ج الیسنة ولسن ولسنات لغت۔ پیغام۔ لسان العزب: عرب کی زبان لسان القوم: قوم کا ترجمان۔ لسان الحال: زبان حال یا کسی چیز کی ظاہری کیفیت۔ لسان الصدق: اچھی شہرت۔ لسان المیزان: ترازو کا وہ حصہ جو تولتے وقت ہاتھ سے پکڑا جائے۔ لسان النار: شعلہ۔ لسان الحمل و..... الفؤرو..... الحلب و..... السبع و..... العصافیر: مختلف نباتات کے نام۔
 والحروف اللسانية: ر۔ ز۔ س۔ ش۔ ص۔ ض۔ کہا جاتا ہے "فلاں ذو لسانین" یعنی فریبی دغا باز۔ منافق۔ نینبت کرنے والا۔
 "والیسنة الناس علیہ حسن" لوگوں کی ثناء تعریف اس کے حق میں اچھی ہے۔
 اللیسن: جو چیز زبان کی طرح نوکدار ہو (..... واللسن) فصیح بلیغ۔ مؤنث لسناء ج لسن۔
 اللیسن: فصیح۔ بہت بولنے والا۔
 الیسسن: پتھر جس کو دروازہ کے اوپر کے حصے میں لگا دیتے ہیں اور اس کے نیچے گوشت کا ٹکڑا رکھ دیتے ہیں۔ جب کوئی درندہ آتا ہے اور اس گوشت کو لینا چاہتا ہے تو پتھر گر پڑتا ہے اور دروازہ بند کر دیتا ہے جس سے درندہ بند ہو جاتا ہے۔
 اللسن: مفع۔ زبان کی طرح نوکدار بنایا ہوا۔
 اللسن: فا۔ حیرت یا فکر کی وجہ سے زبان کو دبانے والا۔
 اللسنون: جھوٹا۔ باتونی کام چور۔ زبان بریدہ۔
 لَسَا يَلْسُو لَسُوبًا: تھوڑا کھانا۔
 لَسَهُ (ن) لَسًا: دھکانا۔ دفع کرنا۔
 بٹانا۔
 اللش: مص۔ ماش۔
 لَشَشٌ: گھبراہٹ کی وجہ سے جگر وغیرہ کا کاٹنا۔

الْمَلَأَتْ: گھبراہٹ کی وجہ سے جگر وغیرہ کا کاچنے والا۔

لَشَا يَلْشُو لَشْوًا: رفعت کے بعد خیس ہونا۔

لَأَشَى مَلَأَشَاءَ الشَّى: لاشی: کروینا۔ معدوم کروینا (یہ لاشی سے بنایا گیا ہے) تلاشی تَلَاشِيًا الشَّى: معدوم ہونا۔ مضمحل ہونا۔

التَلَاشِي: مضمحل۔ انمحل۔

لَصَّ (س) لَصًّا وَلَصَاحًا وَلُصُوصِيَّةً وَلُصُوصِيَّةً: چور ہونا۔

لَصَّ (ن) لَصًّا الْبَابَ: بند کرنا۔ الشَّى: چرانا۔ خفیہ طریقہ سے کرنا۔

لُصِّصَ الْبُنْيَانُ: مضبوط بنانا۔ لغت ہے رُصِّصَ: میں۔

نَلَصَّصَ: چور ہونا۔ چوروں کی عادات اختیار کرنا۔

اللَّصُّ وَالْبِصُّ وَاللُّصُّ: چور۔ ج لُصُوصٌ وَالْأَصَاصُ وَاللُّصَّةُ وَاللُّصَّاصُ وَاللُّصَّاصُ وَاللُّصَّاصُ وَاللُّصَّاصُ وَاللُّصَّاصُ: ج لَصَاتٌ وَلَصَانِصٌ۔

الْأَلَصُّ: قریب قریب موٹھوں والا۔ قریب قریب ہونا اور یہ عیوب انسانی سے ہے۔

الْأَلَصُّ: قریب قریب موٹھوں والا۔ اللِّصَاءُ: اللِّصُّ: کا مؤنث۔ تنگ پیشانی۔ وہ بکری جس کا ایک سینگ آئے اور دوسرا پیچھے ہو۔ ج لُصٌّ۔

السَّلَصَةُ: بہت چوروں والی سرزمین۔ اسم جمع بمعنی لُصُوصٌ۔

لَصِبَ (س) لَصِبًا: الْجِلْدُ بِاللَّحْمِ: گوشت کا کھال سے لاغری کی وجہ سے چمٹنا۔ الْخَلَابِمْ فِي الْأَصْبَعِ: انگلی کا انگلی میں تنگ ہونا۔ الشِّيفُ فِي الْغَمْدِ: تلوار کا میان میں چٹ کر رہ جانا۔

الْتَصَّبَ الشَّى: تنگ ہونا۔

الْبُصْبُ: وادی میں تنگ جگہ۔ پہاڑ کی چوٹی گمانی۔ ج لُصُوبٌ وَلِصَابٌ۔

الْبُصْبُ: وادی میں تنگ جگہ۔ پہاڑ کی چوٹی گمانی۔ ج لُصُوبٌ وَلِصَابٌ۔

الْبُصْبُ: وادی میں تنگ جگہ۔ پہاڑ کی چوٹی گمانی۔ ج لُصُوبٌ وَلِصَابٌ۔

الْمَلَّبُ: تنگ اخلاق والا۔

الْمَلَّوَابِبُ: گہرے تنگ کنوئیں۔

لَبَّأَ جَانِبًا: کہا جاتا ہے "سَيْفٌ مِلَّصَابٌ" میان میں پھینک کے رہنے والی تلوار۔

طَرِيقٌ مُلْتَصِبٌ: تنگ راستہ۔

الْبَلِصْتُ وَاللُّصْتُ وَاللُّصْتُ: چور۔ ج لُصُوتٌ۔

لَضَعُ (ن) لَضُوعًا الْجِلْدُ: کھال کا لاغری کی وجہ سے ہڈی پر خشک ہونا۔

لَصِفَ (س) لَصْفًا الْجِلْدُ: کھال کا ہڈی پر خشک ہونا اور چمٹنا۔

لَصَفَ (ن) لَصْفًا الْحِجَارَةَ: ترتیب سے جوڑنا۔ لَصْفًا وَلَصِيفًا وَلُصُوفًا لُونُهُ: رنگ کا چمکنا۔

لَصِقَ (س) لَصِقًا وَلُصُوقًا وَالنَّصِقُ بِالشَّى: چمکنا۔

الْأَصِقُ الشَّى بِالشَّى: چمکنا۔ بَعْرُ قُوبٍ الْبَعِيرُ: زخمی کرنا۔

لَاَصَقَهُ مَلَأَصَفَةً: چمکنا۔

الْبِلْصِقُ وَاللَّصِيقُ: جو شخص یا چیز قریب ہو۔ کہا جاتا ہے "هُوَ لَصِيقِي وَبِلْصِيقِي" وَلِصِيقِي "وہ میرے پہلو میں ہے۔"

الْلُصُوقُ: زخم کا مرہم جو چپکار ہے۔ عضو پر باندھنے کی پٹی۔

الْمُلْصِقُ: مٹع۔ خاندان میں ملایا ہوا۔ منہ بولا لینا۔ مَوْتٌ مُلْصِقَةٌ۔

لُصِّلَ الْوَتْدُ وَنَحْوَهُ: اکھیرنے کے لئے بلانا۔

لَصَا يَلْصُو لَصْوًا: الْمَرْأَةُ: عورت پر تہمت لگانا۔ گالی دینا۔ لَصَاءٌ وَلِصَالِيَةٌ: تہمت و تنگ کی وجہ سے ملنا۔

لَصِيَ يَلْصِي لَصِيًا وَلِصِيًا يَلْصِي لِصِيًا إِلَيْهِ: تہمت و تنگ کی وجہ سے ملنا۔ لَصَاءٌ لَصِيًا: عیب لگانا۔ وَلِصِيَ الرَّجُلُ: گنہگار ہونا۔

اللِّصَاءُ: عیب۔

لُصِّلَ لُصْلَصَةً: دائیں بائیں بہت زیادہ

الْتَفَاتٌ كَرْنَا۔

الْمَلْلَأُصُّ: ماہر راہبر۔

لَضَمُّهُ (ن) لَضْمًا: سختی کرنا۔ اصرار کرنا۔ لَصًّا يَلْصُو لَصْوًا الرَّجُلُ: راہبری میں ماہر ہونا۔

لَطَّ (ض) لَطًّا الْبَابَ: دروازہ بند کرنا۔ الشَّى: چمچانا۔ البَسْرُ: پردہ لگانا الرَّجُلُ حَقَّهُ وَعَنْ حَقِّهِ: حق کا انکار کر دینا۔ عَنْهُ وَعَلَيْهِ الْخَبْرُ: پوشیدہ رکھنا۔ بِالْأَمْرِ: لازم ہونا۔ الشَّى بَكْدًا: چمٹانا۔ لَطَّتِ النَّاقَةُ بِذَنْبِهَا: اونٹنی کا دوڑنے میں دم کو رانوں میں دبالیانا۔

لَطَّهُ (ن) لَطًّا بِالْعَصَا: لاشی مارنا۔

الَطُّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ: چمچانا۔ الشَّى بَكْدًا: چمٹنا۔ لَطَّتِ النَّاقَةُ بِذَنْبِهَا: اونٹنی کا دوڑنے میں دم کو رانوں میں دبالیانا۔

الَطُّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ: چمچانا۔ الشَّى بَكْدًا: چمٹنا۔ لَطَّتِ النَّاقَةُ بِذَنْبِهَا: اونٹنی کا دوڑنے میں دم کو رانوں میں دبالیانا۔

الَطُّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ: چمچانا۔ الشَّى بَكْدًا: چمٹنا۔ لَطَّتِ النَّاقَةُ بِذَنْبِهَا: اونٹنی کا دوڑنے میں دم کو رانوں میں دبالیانا۔

الَطُّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ: چمچانا۔ الشَّى بَكْدًا: چمٹنا۔ لَطَّتِ النَّاقَةُ بِذَنْبِهَا: اونٹنی کا دوڑنے میں دم کو رانوں میں دبالیانا۔

الَطُّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ: چمچانا۔ الشَّى بَكْدًا: چمٹنا۔ لَطَّتِ النَّاقَةُ بِذَنْبِهَا: اونٹنی کا دوڑنے میں دم کو رانوں میں دبالیانا۔

الَطُّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ: چمچانا۔ الشَّى بَكْدًا: چمٹنا۔ لَطَّتِ النَّاقَةُ بِذَنْبِهَا: اونٹنی کا دوڑنے میں دم کو رانوں میں دبالیانا۔

الَطُّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ: چمچانا۔ الشَّى بَكْدًا: چمٹنا۔ لَطَّتِ النَّاقَةُ بِذَنْبِهَا: اونٹنی کا دوڑنے میں دم کو رانوں میں دبالیانا۔

الَطُّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ: چمچانا۔ الشَّى بَكْدًا: چمٹنا۔ لَطَّتِ النَّاقَةُ بِذَنْبِهَا: اونٹنی کا دوڑنے میں دم کو رانوں میں دبالیانا۔

الَطُّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ: چمچانا۔ الشَّى بَكْدًا: چمٹنا۔ لَطَّتِ النَّاقَةُ بِذَنْبِهَا: اونٹنی کا دوڑنے میں دم کو رانوں میں دبالیانا۔

الَطُّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ: چمچانا۔ الشَّى بَكْدًا: چمٹنا۔ لَطَّتِ النَّاقَةُ بِذَنْبِهَا: اونٹنی کا دوڑنے میں دم کو رانوں میں دبالیانا۔

الَطُّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ: چمچانا۔ الشَّى بَكْدًا: چمٹنا۔ لَطَّتِ النَّاقَةُ بِذَنْبِهَا: اونٹنی کا دوڑنے میں دم کو رانوں میں دبالیانا۔

الَطُّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ: چمچانا۔ الشَّى بَكْدًا: چمٹنا۔ لَطَّتِ النَّاقَةُ بِذَنْبِهَا: اونٹنی کا دوڑنے میں دم کو رانوں میں دبالیانا۔

الَطُّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ: چمچانا۔ الشَّى بَكْدًا: چمٹنا۔ لَطَّتِ النَّاقَةُ بِذَنْبِهَا: اونٹنی کا دوڑنے میں دم کو رانوں میں دبالیانا۔

الَطُّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ: چمچانا۔ الشَّى بَكْدًا: چمٹنا۔ لَطَّتِ النَّاقَةُ بِذَنْبِهَا: اونٹنی کا دوڑنے میں دم کو رانوں میں دبالیانا۔

الَطُّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ: چمچانا۔ الشَّى بَكْدًا: چمٹنا۔ لَطَّتِ النَّاقَةُ بِذَنْبِهَا: اونٹنی کا دوڑنے میں دم کو رانوں میں دبالیانا۔

جائے۔ وادی کا کنارہ۔

الْمَلْطُوطُ: مفتح تَرَسٌ مَلْطُوطٌ: اونٹنی کی ہوئی و حال۔

لَطَأَ (ف) لَطْوَةً أَوْ لَطِيئًا لَطَأَ بِالْأَرْضِ: زمین سے چٹنا۔ لَطَأَهُ بِالْعَصَا: پیچھے پر لاشی سے مارنا۔

الْمَلَايِنَةُ: اچھانہ ہونے والا پھوڑا۔ زخم جو دماغ تک پہنچ جائے۔ چھوٹی ٹوپی جو سر سے چپک کے رہ جائے۔

الْمَلْطَا: بھیڑیا۔ شکاری۔ الْمَلْطَاءُ وَالْمَلْطَاءَةُ: سر کے گوشت اور ہڈی کے درمیان باریک جھلی۔

لَطَفَهُ (ن) لَطْفًا: چوڑی چیز سے مارنا۔ تھپڑ مارنا۔ لَطَفَ الشَّيْءُ: جمع کرنا۔ لَطَفَ الشَّيْءُ: بگاڑنا۔ خراب کرنا۔ لَطَفَ الشَّيْءُ: دُشْوَارَ هَوْنًا۔

تَلَاطَفَتِ النَّمُوجُ: موجوں کا ٹکرانا۔ الْقَوْمُ: ہاتھوں سے ایک دوسرے کو مارنا۔ الْخِلَاطُطُ: جسم کے وہ حصے جو مار یا بوجھ اٹھانے کی وجہ سے درد کر رہے ہوں۔

لَطَحَهُ (ف) لَطْحًا: باطن کف دست سے مارنا۔ تھپکی دینا۔ لَطَحَ بِهِ: زمین پر پٹک دینا۔

لَطَخَ (ف) لَطْخًا وَ لَطَخَ الشَّيْءُ بِالْمِدَادِ وَ نَحْوِهِ: آلودہ کرنا۔ لَطَخَ الشَّيْءُ شَرَكِي نَسَبًا: کرنا۔

تَلَطَّخَ: آلودہ ہونا۔ بِأَسْرِ قَبِيحٍ: ملوث ہونا۔ بَشْرًا: برائی کا ارتکاب کرنا۔

السَّلَطِخُ: مضم۔ تھوڑا سا۔ کہا جاتا ہے سَمِعْتُ لَطْحًا مِنْ خَبْرٍ: میں نے تھوڑی سی خبر سنی۔ وَ فِي السَّمَاءِ لَطَخٌ مِنَ السَّحَابِ: آسمان میں تھوڑا سا بادل ہے۔

السَّلِطِخُ: گندی غذا کھانے والا۔ وہ چیز جو اپنے رنگ کے علاوہ دوسرے رنگ میں لتھیری گئی ہو۔

اللسطوخ: جس سے کسی چیز کو آلودہ کریں۔ اللطخة: بے وقوف۔ رج لطنخات.

اللبطيخ: بے وقوف۔

لَطَسَهُ (ن) لَطْسًا: طمانچہ مارنا۔ چوڑی چیز سے مارنا۔ لَطَسَ الشَّيْءُ: سخت کوٹنا۔ لَطَسَهُ بِسَجْوَرٍ: پتھر مارنا۔ الشَّيْءُ: سخت روندنا۔

..... الْحَجَرُ بِالْحَجَرِ: پتھر کو پتھر سے مارنا۔ لَاطَسَهُ مَلَاطَسَةً: آلودہ ہونا۔ لَتَمَرْنَا۔ تَلَاطَسَ النَّمُوجُ: موجوں کا تھپڑے مارنا۔

الْمِلْطَسُ ج مَلَاطَسٌ. الْمِلْطَاسُ ج مَلَاطِيسٌ: گھمٹلی توڑنے کا پتھر۔ پتھر توڑنے کی سخت اور بڑی کدال۔ پتھر یا چکی میں کھودنے کا آلہ۔ اونٹ کا کھر۔

لَطَشٌ يَلْطَشُ: ہاتھ کے ساتھ مارنا۔ لَطَشَ الْبَيْتَابُ: کپڑے خراب کرنا۔

لَطَعَ (ف) وَ لَطَعَ (س) لَطْعًا. الشَّيْءُ بِلِسَانِهِ: زبان سے چاٹنا۔ فَلَائِنَا: پیچھے سے لات مارنا۔ لَطَعَ الْغَرَضُ: نشانہ لگانا۔ فَلَائِنَا بِالْعَصَا: لاشی مارنا۔ عَيْنُهُ: آنکھ پر طمانچہ مارنا۔ الْكَلْبُ أَوْ الذَّنْبُ: السَّاءُ: پینا۔ اسْمُهُ: نام کو دیوان سے منا دینا۔ دِيَانٌ مِمَّنْ لَكَتَا: لَطَعَتِ الْبَيْتُ: کنوئیں کا پانی خشک ہو جانا۔ کہا جاتا ہے "لَطَعَ اصْبَعُهُ" یعنی مر گیا۔

لَطَعَ (س) لَطْعًا: دانٹوں کا گرنا اور جڑوں کا پانی رہنا۔ مَفْتَحُ اللَّطْعِ: تَلَطَّعَتِ الْإِبِلُ: اونٹ کا بڑھاپے کی وجہ سے بے دانت ہونا۔

الْإِنطَعُ: برتن یا حوض کا سب پانی پی جانا۔ الشَّيْءُ: چاٹنا۔ اللَّطْعُ: مضم۔ تالو۔ رج الطاع.

اللَّطْعَاءُ. الْإَلطَعُ: کامونٹ۔ دبلی پتی۔ رج لَطَعَ.

السَّلطَعُ: مضم۔ ہونٹ کے اندر کی سفیدی۔ وَجَلَّ لَطَعٌ: کمینہ آدمی۔

اللَّطَاعُ: کھا کر انگلیوں کو چاٹنے والا۔ لَطَفَ (ن) لَطْفًا بِفُلَانٍ وَ لِفُلَانٍ: مہربانی کرنا۔ اللہ بِالْعَبْدِ وَ لَهُ: توفیق دینا۔ بچانا۔ الشَّيْءُ: قریب ہونا۔

لَطَفَ (ك) لَطْفًا وَ لَطَافَةً: باریک ہونا۔

چھوٹا ہونا۔ صفت لَطِيفٌ. كَلَامُهُ: نرم ہونا اور کہا جاتا ہے "لَطَفَ عُنْتَهُ" چھوٹا ہونا۔ لَطَفَ بِهِ: اس کے ساتھ مہربانی کی گئی۔

لَطَفَ الشَّيْءُ: نرم بنانا۔ باریک کرنا۔ لَاطَفَهُ مَلَاطَفَةً: بھلائی کرنا۔ نرمی برتنا۔ نرم گھنٹلو کرنا۔

أَلطَفَ السُّؤَالَ: خوبصورتی سے سوال کرنا۔ بِكَلْمَةٍ: تھوڑا۔ بھلائی کرنا۔ أَلطَفَ الشَّيْءُ بِخَبِيئَةٍ: پہلو میں کوئی چیز چپکانا۔

تَلَطَّفَ: خاکساری کرنا۔ بہ: جلد کر کے بھیروں کو معلوم کرنا۔ الْأَمْرُ وَ فِي الْأَمْرِ: نرمی برتنا۔

تَلَاطَفَ الْقَبُومُ: باہم میل ملاپ کرنا۔ تَلَاطَفُوا فِي الْأَمْرِ: باہم نرمی برتنا۔ اسْتَلطَفَهُ: لطیف پانا۔ اسْتَلطَفَ الشَّيْءُ بِخَبِيئَةٍ: پہلو میں کوئی چیز چپکانا۔

السَّلطَفُ: بھلائی کرنا۔ تھوڑا۔ تھوڑا کھانا۔ ج الْأَطَافُ کہا جاتا ہے "هُوَ لِأَيِّ الْأَطَافِ فُلَانٌ" یہ لوگ فلاں کے اصحاب اور اہل ہیں۔

اللَّطْفَةُ: تھوڑا۔ بدیہ۔ اللَّطْفُ: مضم۔ مِمَّنْ قَبِلَ اللَّهُ: توفیق و عصمت خداوندی۔ رج الْأَطَافُ.

اللَّطِيفُ: باریک۔ نرم۔ پاکیزہ۔ مہربان۔ ج لَطَافٌ وَ لَطْفَاءٌ. اللَّطِيفُ: اللہ تعالیٰ کے اسم و حسی میں سے ہے۔ یعنی بندوں کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنے والا نیز باریک سے باریک امور کا جاننے والا۔

السَّلطِيفُ مِنَ الْكَلَامِ: کلام غامض جس کے معنی پوشیدہ ہوں۔ مِمَّنْ الْأَجْرَامُ: تازک جسم۔

اللَّطَافُ: بہت نرمی برتنے والا۔ السَّلطِيفَةُ: لطیف کامونٹ۔ مکتبہ جس سے انبساط پیدا ہو۔ رج لطنائف.

السَّلطِيفُ: مِمَّنْ الْأَضْلَاعُ: سینہ کے قریب پہلو کی ہڈیاں۔

السَّلطِيفُ: مِمَّنْ الْأَضْلَاعُ: سینہ کے قریب پہلو کی ہڈیاں۔

الْمَطْفَانُ: مہربان۔ نرمی کرنے والا۔
 التَّلَطُّفُ: مہربانی۔ عِنْدَ الْقَرَاءِ: حرکت کو
 حرف کی جانب جھکا دینا۔
 لَطْمَةٌ (ض) لَطْمًا: تھپڑ مارنا..... هُ بَكَدًا:
 چپکا تا۔ لَطَمْتُ الْغُرَّةَ الْفَرَسِ: ایک جانب
 چہرہ پر سفید داغ ہوتا۔
 لَطِمَ الْفَرَسُ: گھوڑے کے ایک رخسارہ پر
 سفید داغ ہونا۔ صفت لَطِيمٌ (مذکرو
 مؤنث) ج لَطِمٌ. لَطِمَ الرَّجُلُ: ظلم کیا
 جاتا۔
 لَطْمَةٌ: زور سے تھپڑ مارنا۔ لَطِمَ الْكِتَابُ:
 خط پر مہر لگانا۔
 لَاطَمَهُ لِبَطَانًا وَمِلَاطَمَةً: تھپڑ مارنا۔ ایک
 دوسرے کو تھپڑ مارنا۔
 تَلَطَّمَ وَجْهَهُ: چہرے کا خاکستری رنگ کا
 ہونا۔
 تَلَاظَمَتْ وَتَلَطَّتْ الْأَمْوَاجُ: موجوں کا
 تھپڑے مارنا..... الْقَوْمُ: باہم طمانچہ مارنا۔
 اللَّطْمَةُ لَطْمٌ: کا اسم مرۃ۔ ج لَطْمَاتٍ.
 السَّلْطِيمُ: طمانچہ زدہ۔ ایک رخسارے پر
 سفیدی والا گھوڑا۔ میدان گھوڑ دوڑ کا نواں
 (۹) گھوڑا۔ مٹک۔ جوان اونٹ۔ لڑکا جس
 کے مال باپ دونوں مر گئے ہوں۔
 اللَّطِيمَةُ: مٹک۔ مٹک کا نافر۔ عطر فروشوں
 کا بازار۔ ج لَطَائِمُ.
 المَلَطَمُ: رخسارہ۔
 المَلَطَمُ: بچھانے کا چھرا۔
 السَّمَلِيمُ: وہ موقع جہاں پر سمندر کی موجیں
 ٹوٹ جائیں۔
 الْمُطْلَمُ: منع۔ لیم و نامس۔
 لَطِيهَةٌ (ن ض) لَطِيًا: تھپڑ مارنا۔
 لَطَا يَلْطُو لَطْوًا: بارش وغیرہ سے کسی غاریا
 چتر کی پناہ لینا۔
 لَطَى يَلْطِي لَطْيًا الرَّجُلُ: زمین سے چٹنا۔
 لَطِي يَلْطِي لَطِي الرَّجُلُ: بوجھل کرنا۔
 فَلَانًا بِذَلِكَ: کسی چیز کے متعلق گمان کرنا۔
 تَلَطَّى تَلَطْيًا عَلَى الْعُدُوِّ: دشمن کی غفلت کا

انتظار کرنا۔
 السَّلْطَةُ: زمین۔ جگہ۔ پیشانی یا پیشانی کا
 درمیانی حصہ۔ لَطَاةُ الرَّجُلِ: مُرَدُّ كَامَانٍ۔
 کہا جاتا ہے "الْقِي بِلَطَاتِهِ" اس نے اپنا
 بوجھ اتار دیا۔
 اللَّطَاةُ: چوہ جو تم سے قریب ہوں۔
 المِلْطِيُّ وَالمِلْطَاةُ: سر کی ہڈی اور گوشت
 کے درمیان پار کی جھلی۔
 لَطَّهَ (ن) لَطًّا وَلَطِيظًا: لازم ہونا۔ اصرار
 کرنا۔ لَطَّ بِالشَّيْءِ: چسپے رہنا۔ لَطَّهَ لَطًّا:
 دھتکارنا۔
 لَاطَهُ لِبَطَانًا وَمِلَاطَةً فِي الْحَرْبِ: اصرار
 کرنا۔
 اللَّطُّ: اصرار کرنا..... السَّلَطْرُ: لگا تار برسنے
 والا۔
 بِالمَلْمَانِ: اقامت کرنا..... بِالشَّيْءِ:
 چسپے رہنا۔ اور جدا نہ ہونا۔
 تَلَاظَمَ الْقَوْمُ فِي الْحَرْبِ: ایک دوسرے کو
 بٹاتا۔
 تَلَطَّظَتْ تَلَطُّظًا الْحَيَّةُ: سخت غصہ سے سر
 ہلاتا۔
 اللَّطُّ: مہربانی۔ سخت عادت کا مرد۔ کہا جاتا ہے
 "رَجُلٌ لَطٌّ كَطُّ" تابع مہمل ہے۔
 الْمُطْلَطَةُ: پیغام۔
 المِلْطُ وَالمِلْطَاظُ: سخت اصرار کرنے
 والا۔
 اللَّطَّا: تھوڑی چیز۔
 لَطَلَطَتْ لَطْلَاطَةً الْحَيَّةُ زَانِحًا: سانپ کا
 سخت غصہ سے سر ہلاتا۔
 تَلَطَّظَتْ الْحَيَّةُ: سانپ کا سخت غصہ سے
 لہراتا۔
 السَّلَطَاظُ مِنَ الرَّجَالِ: درشت خو۔ سختی
 کرنے والا۔ ج لَطَّاطٌ: گرم دن۔
 لَطَّيْتُ تَلَطِّي لَطِّي النَّارَ: آگ کا بھڑکانا۔
 لَطِّي تَلَطِّيَةً النَّارَ: آگ کا بھڑکانا۔
 تَلَطَّتْ وَالتَّلَطَّتْ النَّارُ: آگ بھڑکانا۔
 تَلَطَّى وَالتَّلَطَّى فَلَانٌ: غصہ سے بھڑک
 اٹھنا۔

تَلَطَّتْ الْمَفَازَةُ: بیابان میں گرمی کی بھڑک کا
 تیز ہونا..... الْحَيَّةُ مِنَ السَّمَةِ: بھینھینا تا۔
 اللَّطِّي: مہربان۔ آگ یا آگ کی بھڑک۔
 لَطَّى مَعْرِفَةً: دوزخ۔ کلمہ تائید اور علمیت
 کی وجہ سے غیر منحرف ہے۔
 أَلْعَ الْمَكَانِ: ابتدائی روئیدگی کو اگانا۔
 تَلَعَّى اللُّعَاعُ: ابتدائی روئیدگی کو کھانا۔
 ابتدائی روئیدگی کو جمع کرنا (اصل تَلَعَّعَ ہے
 ایک عین کو یا سے بدل دیا گیا ہے۔)
 اللُّعَاعُ: ابتدائی روئیدگی واحد لُعَاعَةٌ ہے اور
 اسی سے ہے "أَنْفَسَا الدُّنْيَا اللُّعَاعَةَ" یعنی دنیا
 ابتدائی روئیدگی کی مانند ہے جس کے لئے بقا
 نہیں۔
 اللُّعَاعَةُ: کاسنی۔ ارزانی سال۔ دنیا ایک
 گھونٹ۔ لُعَاعَةُ الْإِنْيَاءِ: برتن کا خالص حصہ
 اور کہا جاتا ہے "مَنْ بَقِيَ بِاللُّعَاعَةِ" یعنی
 صرف تھوڑا سا باقی رہا۔ ج لُعَاعُ.
 اللُّعَاعَةُ: بھگت سر نکالنے والا۔ کہا جاتا ہے
 "مَطْرَبٌ لُعَاعَةٌ".
 اللَّعَّةُ مِنَ النِّسَاءِ: خوبصورت پاک دامن
 عورت۔
 غَسَلٌ مُطْلَعٌ: شہد جس کا گاڑھے پن کی وجہ
 سے تار نہ ٹوٹے۔
 لَعَبٌ وَلَعِبٌ (س) لَعِبُ الضَّبِيِّ: رال
 پکانا۔
 لَعِبٌ (س) لَعِبًا وَلَعِبًا وَلَعِبًا: کھیل
 کرنا۔ مزاح کرنا۔ لذت و تفریح کے لئے
 کوئی فعل کرنا۔ ایسا فعل کرنا جس پر کوئی نفع
 متصور نہ ہو..... بَهِكًا: کھیل کی چیز بنانا.....
 فِي الْأَمْرِ: سبک سمجھنا۔ لَعِبَتْ الرِّيحُ
 بِالدِّيَارِ: گھروں پر ہوا میں قابض ہو گئیں
 یعنی مکانات ویران و برباد ہو گئے۔
 لَعِبٌ بمعنی لعب.
 أَلْعَبٌ بمعنی لعب..... هُ: کھلانا یا کھیل کی چیز
 لانا..... الضَّبِيُّ: رال پکانا۔
 لِأَعْبِهِ مَلَاعِبَةٌ: باہم کھیلنا۔ عورتوں کے ساتھ
 کھیل کو دکرنا۔

اللُّغَطَةُ: اسم ہے لفظ کا سیاهی یا زردی کا عطف جو عورتیں اپنے رخسارے پر کرتی ہیں۔ بکری کے گردن کی سیاہی۔ شکرے کے چہرے کی تیرگی۔

اللُّغَطَاءُ: گردن میں سیاہ داغ والی بکری۔

المَلْفُطُ: گھروں کے ارد گرد کی چراگاہ۔ ج مَلَا عَطَطَ.

المُلْفَطَةُ: فریب دہرا زلڑکی۔

الْعَفُفُ وَتَلَعَفَ الْأَسَدُ أَوِ الْبَعِيرُ: شیر یا اونٹ کا بار بار آنکھ کھولنا اور بند کرنا۔ غضبناک ہونا اور حملہ کے لئے تیار ہونا۔

لَعِقَ (س) لَعْفًا وَلَعْفَةً وَلَعْفَةَ الْعَسَلِ وَنَحْوَهُ: شہد کو زبان یا انگلی سے چائنا۔ صفت لَا عِقَ ج لَعْفَةً کہا جاتا ہے "لَعِقَ فُلَانٌ إِضْبَعَهُ" یعنی مر گیا۔

الْعَقُّ وَلَعَقٌ: چٹنا۔ الْعَقُّ النَّسَاجُ الْقَوْبُ: بلکے کتائی کے دھاگے سے بنا۔

الْعَتِيقُ: لَوْنُهُ: رنگ سے متغیر ہونا۔

الْمُتَعَفَّةُ: موص۔ اسم مرآة کہا جاتا ہے "فِی الْأَرْضِ لَعْفَةٌ مِنْ رَبِيعٍ" زمین میں ٹھوڑی سی بڑی ہے۔

الْمُتَعَفَّةُ: موص چچہ یا انگلی میں جتنا آئے۔ چائے کے قابل چیزوں میں سے ٹھوڑا سا۔ کہا جاتا ہے "زَجَلٌ وَعَقٌّ لَعِقٌ" یعنی لاپچی مر۔

الْمُعَاقُ: چائی ہوئی چیز کا وہ حصہ جو منہ میں باقی رہ جائے۔

الْمُعَفُوقُ: ہر وہ چیز جو چائی جا سکے جیسے شہد دوا وغیرہ۔ چٹنی۔ ٹھوڑا سا توشہ۔ کہا جاتا ہے "مَا سَمِعْنَا إِلَّا الْمُعَفُوقَ" ہمارے ساتھ صرف ٹھوڑی سی چیز ہے۔

المِلْفُطَةُ: چچہ۔ ج مَلَا عَقَ.

المَلْفِقُطُ: ہد زبان عورت۔

لَعَلَّ: حرف مشبہ بالفعل میں سے ہے۔ اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے اور توقع کا فائدہ دیتا ہے جیسے لَعَلَّ الْحَبِيبَ قَادِمٌ: اور خوف کے موقع پر بھی بولا جاتا ہے جیسے "لَعَلَّ"

السَّيْذَةُ نَارِيَّةٌ: اور ایسے ممکن کے ساتھ خاص ہے جس کے حصول کا وثوق نہ ہو۔

(مفردات امام راغب اصفہانی میں ہے کہ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ لَعَلَّ: جب باری تعالیٰ عَزَّ وَجَلَّ اس کے طرف سے ہو تو

وجوب کے معنی ہوتے ہیں اور قرآن پاک کے بہت سے مواقع میں لَعَلَّ کی تفسیر کئی سے کی گئی ہے) اس کے لام اول کو حذف کر کے عَلَّ بھی کہا جاتا ہے اور اس پر ما کا فر بھی داخل ہوتا ہے جیسے لَعَلَّمَا أَصْنَاءُ ث لَكَ السَّارُ اور اس کے ساتھ جب یاء متکلم متصل ہو تو اکثر نون و قایہ نہیں لاتے۔ کہا

جاتا ہے "لَعَلِّي" اور "لَعَلَّيْ" بھی۔ اللُّغَلُ: ایک مشہور نہایت بیش قیمت پتھر۔ لَعَلَعَ الْعَظْمُ وَنَحْوَهُ: ہڈی توڑنا۔ الرُّغْدُ: بادل کا گر جٹا۔ الشَّرَابُ: سراب کا چمکنا۔

مِنَ الشَّيْءِ: تنگ دل ہونا۔ زَجَّ ہونا۔ مِمَّنِ الْجُوعُ: بھوک کی وجہ سے ممکن ہونا۔ بِالْعَائِرِ: بچھلنے والے سے لَعَّ یا لَعَلَّعَ يَا لَعَا: کہا۔

تَلَعَّلَعَ: ٹوٹنا۔ مِمَّنِ الْجُوعُ: بلبلا نا اور بیچ و تاب کھانا۔ الرُّجُلُ: مصلح یا مرض کی وجہ سے کمزور ہونا۔ الشَّرَابُ: سراب کا چمکنا۔ الْكَلْبُ: کتے کا پیاس کی وجہ سے زبان لٹکانا۔

الْمَلْعُ: سراب۔ بھیڑیا۔ ایک حجازی درخت۔ اللِّغْلَاعُ: بزدل۔ عَسَلٌ مُتَلَعٌ: شہد جس میں لہا تار نکلے۔ تَلَعَلَّمَ فِي أَمْرِهِ: دیر لگانا۔

الْمَلْعَمُ: لعاب دہن۔ لَعَمَطَ لَعْمَطَةً وَلَعَمَاطًا اللَّحْمُ: ہڈی سے گوشت چھوڑنا۔

الْمَلْعَمَطُ وَالْمَلْعَمُوطُ وَالْمَلْعَمُوظَةُ: بہت حریص و خواہش مند۔ ج لَعَمَاطَةً وَلَعَمَاطًا. اللُّغَمُوظُ: ٹپٹلی۔ صرف کھانے پر خدمت کرنے والا۔ زَجَلٌ لَعْمَطَةٌ: بہت

حریص۔

الْبُلْعَاطُ: موص۔ ڈیگ مارنے والا۔

لَعَنَ (ف) لَعْنًا فُلَانًا: لعنت کرنا۔ رسوا کرنا۔ گالی دینا۔ خیر سے بعید کرنا۔

دَحَكَرْنَا لَعْنًا نَفْسَهُ: عَلِيُّ لَعْنَةُ اللَّهِ: کہا۔ اپنے اور پر لعنت کرنا۔

لَعْنَةُ تَلْعِينًا: عذاب دینا۔

لَا تَعْنَهُ لِعَانًا وَمَلَاغَنَةً: ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔ الخَاكِمُ بَيْنَهُمَا: فیصلہ کرنا۔

إِتْعَنَ: اپنے اور پر لعنت کرنا (.....) وَتَلَاغَنَ) بعض کا بعض پر لعنت کرنا۔

اللَّعْنُ: موص "وَأَيَّتَ اللَّعْنُ" زمانہ جاہلیت میں بادشاہوں کے لئے سلام۔ یعنی اسے بادشاہ تو ایسے فعل سے باز رہ جو مستحق لعنت ہو۔

الْمَلْعَنَةُ لَعْنٌ: کا اسم مرآة۔ لعنت۔ عذاب ج لِعَانٌ وَلَعْنَاتٌ.

اللِّعَانُ وَاللِّغْيَانَةُ: اسم ہیں لعنت سے۔

اللَّاعِنُ: قا۔ أَمْرٌ لَاعِنٌ: باعث لعنت۔

اللِّعَانُ: بہت لعنت کرنے والا۔

اللِّغْنَةُ: جس پر لوگ بہت لعنت کریں۔

الْمَلْعَنَةُ: جو لوگوں پر بہت لعنت کرے۔ ج لَعْنٌ.

الْمَلْعِينُ: لعنت کیا ہوا۔ گالی دیا ہوا۔ دَحَكَرَا ہوا۔ بد بخت۔ مَسَخٌ کیا ہوا۔ رسوا۔ ہلاک

شدہ۔ شیطان اچکا (جو کھیتوں میں پرندوں کو ڈرانے کے لئے کھڑا کیا جاتا ہے)

الْمَلْعِينَةُ: بمعنی ملعون جیسے زُهَيْبَةُ: بمعنی مَرُهُونٌ.

الْمَلْعِنَةُ: پانچخانہ۔ ج مَلَا عِنَ (.....) وَاللَّاعِنَةُ) وسط راستہ۔

الْمَلْعُونُ: مفتح۔ ج مَلَا عِينُ.

تَلَعَّى الْعَسَلُ: شہد کا گڑ کھا ہونا۔ اللِّغَاعُ: ای اوَّلُ النَّبَاتِ: ہر یا اول ٹھکانا۔ شروع ہوتا۔

الْعَبُّ الْأَرْضُ: ہر یا اول والی زمین ہونا۔ اللُّغُو: بدخلق۔ کینہ۔ لاپچی۔ ج لِعَاءٌ.

اللغوۃ: اللغو: کاموث۔ سرپستان کے اردگرد کی سیاہی۔ لغوۃ الجوع: بھوک کی تیزی..... واللغۃ: کتیا۔ کلثۃ او ذنیۃ لغوۃ: لاپچی کتیا یا مادہ بھیریا۔ ج لعاء ولغوات.

اللغوۃ: سرپستان کے اردگرد کی سیاہی۔ اللعسی: جس کو ذرا سی چیز گھبراہٹ میں ڈال دے۔

اللاعیۃ السلاعی: کاموث۔ ایک چھوٹا سا پودہ جس کا پھول زرد رنگ کا اور خوشبو عمدہ ہوتی ہے۔

السفا: بہت حریص اور پھسلنے والے کے لئے کہا جاتا ہے "العالمک" یعنی خدا تمہیں اٹھائے اور "العالمک" بد دعا ہے یعنی خدا تمہیں نہیں اٹھائے۔

الالعاء: انگلیوں کی گریوں کے جوڑ۔ لغوق: کام میں جلدی کرنا۔ اللغوق: کم عقل۔ بے وقوف۔

لغب (ف ن) ولغب (ک) لغبا ولغوبا ولغويا ولغب (س) لغبا: بہت تھکنا۔ لغب (ف) لغبا. القوم: جھوٹی بات کہنا..... علیہم: فسادۃ النان..... الکلب فی الإناء: کتے کا برتن میں مت ڈالنا۔

لغب والغب وتلغب السير فلاتا: بہت تھکا دینا۔ لغب ذاتیۃ: جانور پر اتالا دینا جس سے تھک جائے تھکا ہوا پانا..... الغب فلاتا: تھکا دینا۔ تلغب الإنسان والحيوان:

دور بھگا دینا یا تاک دینا کہا جاتا ہے "تلغثهم الأسفار وتلغث بهم القفار" یعنی سفر نے انہیں دور ڈال دیا میدانوں نے انہیں دور پھینک دیا۔ مطلب یہ کہ وہ دور چلے گئے تلغب سير القوم: قوم کے تھکنے تک چلتا رہنا تلغب الذابۃ: تھکا ہوا پانا۔

اللاغب: فاکمزور۔ ج لغب کہا جاتا ہے "انسانا ساعبا لاغبنا" ہمارے پاس بھوکا تھکا ہوا آیا۔

اللاغبۃ: اللغوب: کاموث ج لغواغب

کہا جاتا ہے "رئساح لساغب" یعنی نرم ہوا میں۔

السغب والسغب: کمزور۔ بے وقوف۔ السغب: اگلے دانوں کا موڑھا۔ کلام فاسد۔ کہا جاتا ہے انكف عنك یعنی ہم سے اپنے کلام فاسد کو بند کرو۔ سنہم لغب: خراب تراشا ہوا تیر۔

اللغب واللغب واللغب واللغب: خراب پر۔ السغب: گردن کے بال۔ کہا جاتا ہے أخذ بالسغب زفتیہ: یعنی اس نے اس کی گردن کے بال کو پکڑ لیا۔

اللغاب: خراب تراشا ہوا تیر۔ اللغابۃ واللغوۃ: بے وقوفی۔ کمزوری۔ السغیث: زہر مٹائی ہوئی چیز جو گدھ کے پھسانے کیلئے پھیلائیں۔ جو ملا ہوا گیہوں (گوجنی)

اللغفون: ناک کا تھنا۔ ج لغافین۔ لغد (ف) لغدا الإبل العواند: سیدھے راستے پر اونٹوں کو لانا..... عن كذا: روکنا..... فلاتا: کنارہ گردن کے گوشت پر مارنا۔

اللغد ج الغاد. واللغذود واللغيد. ج لغاديد: حلق کا گوشت۔ حلق کا کوا۔ کان کے اندرونی حصہ کا زائد گوشت۔ کہا جاتا ہے "علج من الأوغاد ضخم الألفاد" المتلفد: سخت غھبناک۔ اللغمی والمتلفم: بہت کھاؤ۔

لغز (ن) لغزا الشی: چیز کو اس کے صحیح طریقے سے پھیر دینا..... فی سببہ: قسم کھانے میں تلبیس سے کام لینا..... والغز السربوع حجرة: جنگلی چوہے کا سوراخ کو

ج دار کھودنا۔ لغز والغز فی الکلام والغز الکلام: کلام سر بست کہنا۔ ج دار بات کہنا۔

لاغرة ملاغرة: پھیل جیسی لنگھو کرنا۔ اللغز واللغز واللغز: چوہے یا جنگلی چوہے یا گودہ کا بل۔

اللغز واللغز واللغز: کاموث ج لغواغب

اللغز واللغز واللغز: کاموث ج لغواغب

اللغز واللغز واللغز: کاموث ج لغواغب

والسغیزجی والالغوزۃ من الکلام: چیستان۔ معمر۔ پھیل۔ الالغای: ج دار اور مشکل راستے۔

اللغاز: لوگوں کی بہت غیبت کرنے والا۔ المُلغز من الکلام: پیچیدہ و دشوار کلام۔ اللغوس: بھیر یا کھانے میں تیز مرد۔ بہت فریبی چور۔ نرمی و نازکی کی وجہ سے لہلہلانے والی گھاس۔

اللغوسۃ: غیر متحقق خبر۔ اللغوس: جگی چرئی۔ لغط (ف) لغطا ولغاطا ولغط ولغط القوم: شور کرنا۔

لغط (ف) لغطا ولغیطا الحنم أو القطا: کبوتر یا قطا کا غتر غوں کرنا۔ اللغط: ممس۔ دروازے کے آگے کا گھن۔ (..... واللغط) آواز۔ شور۔ سبم آواز جو کچھ میں نہ آئے۔ ج الغاطا۔

لغف (س) لغفا. الإناء: برتن چائنا..... الإدام: سانن کا لقمہ بنانا۔ لغف (ف) لغفا الرجل أو الأسد: مرد یا شیر کا تیز نظر سے دیکھنا۔

لاغفة ملاغفة: بوسہ دینا۔ دوستی کرنا۔ الغف: تیز دوڑنا۔ نظر تیز کرنا۔ چوروں کے ساتھ رہنا اور ان کے مال و متاع کا محافظ بنانا..... فلاتا الإدام: سانن کا لقمہ لگوانا۔

ہ: ہر معاملہ کرنا اور ظلم کرنا۔ الغف علیہ: سخت ست باتیں کہنا۔ اللغفة: لقمہ۔

السلیف: مرد کے خاص لوگ۔ چوروں کا ساتھی اور ان کے کپڑے وغیرہ کا محافظ۔ ج لغفاء۔

السلیفة: ایک قسم کا کھانا جس کو عسیدہ بھی کہتے ہیں۔

السلفۃ: چوروں کا گروہ۔ اللغفۃ: کلام میں کلفت۔

لغم (ف) لغما البعیر: جھاگ پھینکنا..... ہ: مہ چومنا..... الرجل: غیر مستحق خبر دینا۔

اللغز واللغز واللغز: کاموث ج لغواغب

(.....) وَلَغَمٌ فَلَانَا بِالطَّيِّبِ: منہ پر خوشبو لگانا۔
 لَغَمٌ (س) لَغَمًا وَلَغَمًا: غیر یقینی خبر دریافت کرنا۔
 لَغَمٌ يَلْغَمُ الْأَرْضَ أَوْ الْحَجَرَ: بازو دی سرنگ بچھانا۔
 اللَّغْمُ: بازو دی سرنگ کبھی خشکی والی اور کبھی سمندری ہوتی ہے۔
 اللَّغْمُ الذَّهَبُ وَمَا شَابَهُهُ مِنْ كُلِّ جَوْهَرٍ مُذَابٍ: سونے وغیرہ میں پارہ ملا یا جانا۔ صفت مُلْغَمٌ۔
 يَلْغَمُ الذَّهَبُ: سونے کا پارہ سے ملنا۔
 تَلْغَمٌ بِالطَّيِّبِ: ناک اور منہ پر خوشبو لگانا۔
 الْقَوْمُ بِالْكَلَامِ: گفتگو میں منہ کے کناروں کو بلانا۔
 وَالشَّرْبُ: تر ہونوں والی ہونا۔
 اللَّغْمُ: تھوڑی خوشبو۔ زبان کی رگیں۔
 اللَّغَامُ: اونٹ کے منہ کی جھاگ۔ لعاب۔
 اللَّغْمَاءُ: سفید منہ والی بکری۔
 اللَّغِيمُ: بچید۔
 السَّلْغَمُ: ناک اور منہ اور ان دونوں کا ارد گرد۔ ج ملاغم۔
 الْغَائِثُ النَّبْتُ: نباتات کا گھنجان اور دراز ہونا۔
 الْأَرْضُ: بہت گھاس والی زمین ہونا۔
 اللَّغْنُ: جوانی کا جوش۔
 لَغَا يَلْغُو لَغْوًا بَكْذَا: بولنا۔ الشئُ: باطل ہونا۔ الرَّجُلُ: محروم ہونا۔ عَنِ الطَّرِيقِ: ہٹ جانا۔
 لَغَا يَلْغُو لَغْوًا وَلَغَا يَلْغِي وَيَلْغِي لَغْيًا وَلَغَايَةً وَلَاغِيَةً وَمُلْغَاةٌ فِي قَوْلِهِ: غلطی کرنا۔
 بغیر کچھ بوجھے بولنا۔
 لَغْيٌ يَلْغِي لَغْيًا بِالْأَمْرِ: مشتاق ہونا۔
 بِالسَّاءِ: بہت پانی پینا اور سیراب نہ ہونا۔
 بِالشَّيْءِ: چھے رہنا اور جدا نہ ہونا۔
 الطَّيِّبُ: باضوائیہا: پرندوں کا سرنگ لانا اور کہا جاتا ہے هُمْ يَلْغُونَ فِي الْحِسَابِ: وہ حساب میں غلطی کرتے ہیں۔

لَاغَى مُلَاغَةً الرَّجُلُ: ہنسی مذاق کرنا۔
 أَلْغَى الشَّيْءُ: باطل کرنا۔..... فَلَانَا: محروم کرنا۔
 اسْتَلْفَى فَلَانًا: گفتگو کرنا۔ لغت سننا۔
 اللَّغَا: مص - آواز۔ بے ہودہ۔ بے ہودہ کلام وغیرہ۔
 اللَّغْفَةُ: ہر قوم کی کلام مصطلح جس سے وہ اپنے مقاصد کو ظاہر کرے۔ ج لَغْفَى وَلَغْفَاتٌ وَلِغُونٌ: اور نسبت کے لئے لَغْفَوِي. عَلِمٌ اللَّغْفَةُ: مفردات کے اوضاع کی معرفت کا علم۔ كُحِبَ اللَّغْفَةُ: فن لغت کی کتابیں۔ أَهْلُ اللَّغْفَةِ: فن لغت کے ماہرین اور کبھی عَلِمٌ اللَّغْفَةُ: کا اطلاق علوم عربیہ کے سارے اقسام پر ہوتا ہے۔
 اللَّغْوُ: مص - بے ہودہ کلام وغیرہ۔ کتے کی آواز۔ کہا جاتا ہے "تَكَلَّمْتُ بِاللَّغْوِ وَاشْتَعَلْتُ بِاللَّغْوِ" وہ بے ہودہ گفتگو اور افعال میں مشغول ہوا۔ قسم کھانے میں گناہ۔
 اللَّاغِيَةُ: مص - بے ہودہ کلام وغیرہ۔
 كَلِمَةٌ لِاغِيَةٌ: بیج کلہ۔
 اللَّغَاةُ: آواز۔
 اللَّغْوِيُّ: تقاریر پرندہ کا شور۔ بے ہودہ کلام وغیرہ۔ کہا جاتا ہے "اسْمَعِ لَغْوَاهُمْ وَلَا تَخَفْ طَغْوَاهُمْ" ان کے بے ہودہ کلام کو سنو اور ان کی سرکشی سے خوف مت کرو۔
 لَغْفٌ (ن) لَغْفًا الشَّيْءُ: پھینکا۔ ملانا۔ جمع کرنا۔
 أَلْجَيْتَ فِي أَكْثَفَانِهِ: میت کو کفن میں پھینکا۔
 السَّكِينَتَيْنِ: دو لشکروں کو ملانا۔
 فِى الْأَحْمَلِ: مختلف قسم کے کھانوں کو ملا کر بری طرح سے کھانا اور اسی سے ہے "إِنْ أَكَلْتَ لَغْفًا وَإِنْ شَرَبْتَ اشْتَفْتُ" اگر کھاتا ہے تو سب ہڑپ کر جاتا ہے اور اگر پیتا ہے تو سب صاف کر دیتا ہے۔ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: چیز کو چیز سے ملانا جوڑنا۔ حَقَقَهُ: حق کا انکار کرنا۔ منح کرنا۔ لَغْفَتِ الْأَشْجَارُ: گھنجان ہونا۔
 لَغْفٌ (س) لَغْفًا وَلَغْفًا: ہڈ گوشت رانوں والا

ہونا۔ صفت أَلْفٌ مَوْثٌ لَغْفَاءٌ ج لَغْفٌ۔
 لَغْفٌ بمعنی لَغْفٌ تشدید ساتھ لگانے کے لئے ہے۔
 لَأَقَفَ الصَّقْرُ الصَّيْدَ: شکرے کا شکار پر ٹوٹ پڑنا اور بچوں میں کر لینا۔ کہا جاتا ہے "لَأَقَفْنَا الْقَوْمَ" یعنی ہم قوم سے مل گئے۔
 أَلْفٌ الطَّائِرُ زَامَةٌ: پرندہ کا پروں میں سر کو چھپا لینا۔ الرَّجُلُ زَامَةٌ: جبے میں سر کو چھپا لینا۔
 اللَّغْفُ وَتَلَفَّفَ فِي قَوْلِهِ: کپڑے میں پھینکا۔
 عَلَيْهِ الْقَوْمُ: اکٹھا ہونا۔ اللَّغْفُ النَّبَاتُ: گھنجان ہونا۔ لَهُ عَلَى حَتِّي: غضبناک ہو کر پھینکا۔ الشَّيْءُ: گھنجان ہونا۔
 تَلَاغَتْ الْقَوْمُ: یا ہم ملنا۔
 اللَّغْفُ: مص - کہا جاتا ہے جَاءُوا بِالْفَقِيمِ وَبِلَفْقِيهِمْ" یعنی جماعت کے ساتھ سب آئے۔
 السِّلْفُ: پارٹی۔ گروہ۔ اکٹھی قوم۔ جو ادھر ادھر سے جمع کیا جائے۔ گھنجان باغ۔ ج الْأَصْفَاءُ وَالْفَوَفُ کہا جاتا ہے "جَاءَ الْقَوْمُ وَمَنْ لَغْفَ لَفْهُمُ أَوْ لَفْهُمُ" قوم آئی اور ان کے ساتھ ان کے لگے بندھے بھی آئے "وَجَاءَ وَالْفَافُ" مختلف قسم کے لوگوں کی جماعت آئی زَوْضَةٌ لَغْفٌ وَلَغْفَةٌ وَلَفْقَةٌ وَلَفْقَةٌ: گھنجان باغ۔
 السِّلْفَاةُ: جو چیز کسی چیز پر لپٹی جائے 'دل پر لپٹی ہوئی چربی۔ سگریٹ (مولدۃ) ج لَفْقَائِفُ۔
 اللَّفْفُ: کام کرنے والے کے بازو کی رگ کا مڑ جانا جس کی وجہ سے وہ کام میں بیکار ہو جاتا ہے۔ کھانے میں ملانا جلانا اور زیادہ کھانا جس چیز کو قوم یہاں وہاں سے جمع کرے۔
 اللَّفْفِيْفُ: جھنڈ دار اور گھنجان درخت مختلف قسم کے لوگوں کی جماعت جس میں شریف، رذیل، فرما تیر و دار، نافرمان، قوی، کمزور کبھی قسم کے ہوں اور کہا جاتا ہے "طَعَامٌ لَفْفِيْفٌ"

مخلوط رکھناو "هُوَ لَفِيفٌ فَلَانٌ" وہ فلاں کا دوست ہے "وَجَمْعُ لَفِيفٌ" ہر جگہ سے اکٹھا کیا ہوا۔

الْلَفِيفَةُ: مجموعہ۔ اونٹ کی پینہ کا گوشت۔ سگریٹ۔ ج لَفَائِف۔

الْأَلْفُ: بازو کی ایک رگ۔ گفتگو میں عاجز و درمائدہ۔ کاموں میں عاجز و سست۔ طے

ہوئے ابروؤں والا۔ لوگوں سے بھری ہوئی جگہ۔ مَوْنُثٌ لَفَاءٌ ج لَفٌ. فَخَذَ لَفَاءً: موٹی ران۔

الضلائف: گنجان گھاس..... مِنَ الْأَمْعَاءِ وَالْبِدْمَاعِ فِي إِصْطِلَاحِ الطَّبِّ: ایک کے اوپر ایک لپا ہوا۔

الْمِلْفُ وَالْمِلْفُافُ: چادر۔ لحاف۔ وَالْمِلْفُ فِي إِصْطِلَاحِ عُلَمَاءِ الْكَهْفُ

بَابِيَّةٍ: چکر جس پر تار لپیٹا جائے۔ الْمَلْفُوفُ: مِسْحُ: ایک قسم کی نباتات۔ واحد مَلْفُوفَةٌ.

لَفَا (ف) لَفَا وَلَفَا الْعُودُ: نکڑی چھیانا۔ اللَّحْمُ عَنِ الْعِظْمِ: گوشت اتارنا..... الرِيْبُخُ

السَّحَابُ عَنِ وَجْهِ الْأَرْضِ: بادلوں کو پراگندہ کر دینا..... عَنِ مَرَادِهِ: رد کرنا۔

بَيَّنَا..... هُ: نَبِيْتُ كَرْنَا..... هُ حَقَّقَهُ حَقًّا سَے کم دینا۔ يُوْرَاجِحُ دِينَا..... هُ بِالْعَصَا: لالچی مارنا۔

لَفَيْ (س) لَفَا الشَّيْءُ: باقی رہنا۔ أَلْفَا الْفَاءُ: الشَّيْءُ: باقی رکھنا۔

أَلْفَا الْعُودُ: نکڑی چھیانا۔ چمکا اتارنا۔ أَلْفَاءُ: مٹی۔ تھوڑی چیز۔ حَقًّا سَے کم۔

الْلَفِيفَةُ: بغیر ہڈی کے گوشت کا ٹکڑا۔ ج لَفَانًا وَلَفِيًّا.

لَفَتْ (ش) لَفَعْنَا الشَّيْءَ: دائیں یا بائیں موڑنا..... رَدَّاهُ عَلَيَّ عُنُقِيهِ: چادر کو گردن پر موڑنا۔ فَلَانًا عَنِ زَايِهِ: رائے سے پھیرنا

..... الرَّيْبُشُ عَلَيَّ السَّهْمِ: پرکوتیر پر کیسما اتفق لگا دینا..... الرَّاعِي الْمَنَابِيئَةَ: مارنا اور اس کی پروا نہ کرنا کہ کس کو لگے..... السَّيْحَاءُ

عَنِ الشَّجَرَةِ: درخت سے چھال اتارنا..... الْكَلَامُ: لاپرواہی سے گفتگو کرنا۔ کہا جاتا ہے "لَفَعَهُ بِكَذَا" یعنی اس نے اس کو دیا۔

لَفَتْ الشَّيْءُ: موڑنا۔ اِنْفَتْ وَتَلَفَتْ إِلَيْهِ: چہرہ پھیرنا۔ اِنْفَتْ بِوَجْهِهِ يَنْتَهَ: وَسْرَةٌ: جھکنا۔

اللِّفْتُ: بٹانم۔ السِّلْفُ: چیز کی ایک جانب۔ گائے۔ بے وقوف عورت۔

الْلَفْتُ فِي النَّيْسِ: مینڈھے کے ایک سیٹنگ کا میز ہونا..... فِي الْإِنْسَانِ: بائیں ہاتھ سے کام کرنا۔

الْلَفَاتُ: بے وقوف۔ سخت خو۔ الْلَفْتَةُ: جانوروں کو ہمیشہ مارنے والا چرواہا۔

الْأَلْفُ: ایک بیچ دار سیٹنگ والا اکرا۔ مضبوط ہاتھ والا۔ بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا۔

بے وقوف۔ بجیرگا۔ مَوْنُثٌ لَفَاءً. ج لَفْتُ. السَّلْفُوتُ: سخت خو۔ چٹل خور عورت۔ اونٹنی جو دوونے کے وقت بے قرار رہے۔ عورت جس کی نگاہ ایک جگہ نہ ٹھہرے۔

الْلَفِيئَةُ: ایک قسم کا گڑھا حلوا۔ الْمُتَلَفُّةُ: کندھے کی ہڈی کا اوپر کا حصہ۔ اِسْتَلْفْتُ: باہر نکالنا۔ چیز کی حقیقت کو پہنچنا۔

خبر کو چھپانا۔ حاجت روائی کرنا۔ تمام چارے کو کھانا۔

الْأَلْفُ: بے وقوف۔ الْفَجُ: مفلس ہونا۔ بے مال و دولت ہونا۔ غم وغیرہ کی وجہ سے زمین سے چٹے رہنا۔

فَلَانٌ يَحْتَاجُ بَنَانًا: مجبور کرنا۔ الْفَلْحُ: ذلت۔ السَّلْفُجُ وَالْمُسْتَلْفُجُ: مفلس۔ لاغری کی وجہ سے زمین سے چٹنے والا۔ الْمُسْتَلْفُجُ: خوف کی وجہ سے پراگندہ دل۔

لَفَحَ (ف) لَفَحْنَا فَلَانًا بِالسَّيْفِ: تلوار مارنا لَفَحْتُ (ف) لَفَحْنَا وَلَفَحْنَا: النَّارُ أَوْ السَّمُومُ بِخَرِّهَا فَلَانًا: جھلس دینا۔

نَارَ لَفُوحٍ وَلاَفِيحٍ: جلانے والی آگ۔ ج لَوَاحِحُ کہا جاتا ہے "أَصَابَهُ مِنَ الْخَرِّ لَفْحٌ" و"مِنَ النَّارِ نَفْحٌ".

الْفَلْحُ: ایک قسم کا پودہ۔ واحد لَفْحَةٌ. لَفَحَهُ (ف) لَفَحْنَا قَبْلِي أَوْ عَلَيَّ زَايِهِ: مارنا۔

الْفَلْحُ: مِصَّ سارے سر پر مارنا۔ لَفْحٌ (ض) وَلَفِيضٌ (س) لَفْظًا الشَّيْءُ وَبِالشَّيْءِ مِنْ قَبْضِهِ: منہ سے پھینکنا۔ ڈال دینا۔ صفت مفعول لَفِيضٌ وَمَلْفُوظٌ.....

الْبَحْرُ ذَابَةٌ: دریا کا کنارے پر پھینک دینا..... فَلَانٌ نَفْسَهُ أَوْ غَضَبَهُ: مرنا (عصب سے مراد تھوک ہے جو منہ سے چمٹ کر نکل جاتا ہے) اور کہا جاتا ہے "لَفَضْتُ إِلَيْنَا الْبِلَادَ أَهْلَهَا" یعنی ہماری جانب نکال دیا "وَجَاءَ وَقَدْ لَفِظَ لِبِجَامِهِ" یعنی وہ آیا اس حال میں کہ پیاس اور تھکن کی وجہ سے تکلیف میں تھا..... وَتَلَفِظَ بِالشَّيْءِ: بولنا۔

الْلَفْظُ: مِصَّ سارے سر پر مارنا۔ لَفِظٌ (ض) وَلَفِيضٌ (س) لَفْظًا الشَّيْءُ وَبِالشَّيْءِ مِنْ قَبْضِهِ: منہ سے پھینکنا۔ ڈال دینا۔ صفت مفعول لَفِيضٌ وَمَلْفُوظٌ.....

الْبَحْرُ ذَابَةٌ: دریا کا کنارے پر پھینک دینا..... فَلَانٌ نَفْسَهُ أَوْ غَضَبَهُ: مرنا (عصب سے مراد تھوک ہے جو منہ سے چمٹ کر نکل جاتا ہے) اور کہا جاتا ہے "لَفَضْتُ إِلَيْنَا الْبِلَادَ أَهْلَهَا" یعنی ہماری جانب نکال دیا "وَجَاءَ وَقَدْ لَفِظَ لِبِجَامِهِ" یعنی وہ آیا اس حال میں کہ پیاس اور تھکن کی وجہ سے تکلیف میں تھا..... وَتَلَفِظَ بِالشَّيْءِ: بولنا۔

الْلَفْظُ: مِصَّ سارے سر پر مارنا۔ لَفِظٌ (ض) وَلَفِيضٌ (س) لَفْظًا الشَّيْءُ وَبِالشَّيْءِ مِنْ قَبْضِهِ: منہ سے پھینکنا۔ ڈال دینا۔ صفت مفعول لَفِيضٌ وَمَلْفُوظٌ.....

الْبَحْرُ ذَابَةٌ: دریا کا کنارے پر پھینک دینا..... فَلَانٌ نَفْسَهُ أَوْ غَضَبَهُ: مرنا (عصب سے مراد تھوک ہے جو منہ سے چمٹ کر نکل جاتا ہے) اور کہا جاتا ہے "لَفَضْتُ إِلَيْنَا الْبِلَادَ أَهْلَهَا" یعنی ہماری جانب نکال دیا "وَجَاءَ وَقَدْ لَفِظَ لِبِجَامِهِ" یعنی وہ آیا اس حال میں کہ پیاس اور تھکن کی وجہ سے تکلیف میں تھا..... وَتَلَفِظَ بِالشَّيْءِ: بولنا۔

الْلَفْظُ: مِصَّ سارے سر پر مارنا۔ لَفِظٌ (ض) وَلَفِيضٌ (س) لَفْظًا الشَّيْءُ وَبِالشَّيْءِ مِنْ قَبْضِهِ: منہ سے پھینکنا۔ ڈال دینا۔ صفت مفعول لَفِيضٌ وَمَلْفُوظٌ.....

الْبَحْرُ ذَابَةٌ: دریا کا کنارے پر پھینک دینا..... فَلَانٌ نَفْسَهُ أَوْ غَضَبَهُ: مرنا (عصب سے مراد تھوک ہے جو منہ سے چمٹ کر نکل جاتا ہے) اور کہا جاتا ہے "لَفَضْتُ إِلَيْنَا الْبِلَادَ أَهْلَهَا" یعنی ہماری جانب نکال دیا "وَجَاءَ وَقَدْ لَفِظَ لِبِجَامِهِ" یعنی وہ آیا اس حال میں کہ پیاس اور تھکن کی وجہ سے تکلیف میں تھا..... وَتَلَفِظَ بِالشَّيْءِ: بولنا۔

الْلَفْظُ: مِصَّ سارے سر پر مارنا۔ لَفِظٌ (ض) وَلَفِيضٌ (س) لَفْظًا الشَّيْءُ وَبِالشَّيْءِ مِنْ قَبْضِهِ: منہ سے پھینکنا۔ ڈال دینا۔ صفت مفعول لَفِيضٌ وَمَلْفُوظٌ.....

الْبَحْرُ ذَابَةٌ: دریا کا کنارے پر پھینک دینا..... فَلَانٌ نَفْسَهُ أَوْ غَضَبَهُ: مرنا (عصب سے مراد تھوک ہے جو منہ سے چمٹ کر نکل جاتا ہے) اور کہا جاتا ہے "لَفَضْتُ إِلَيْنَا الْبِلَادَ أَهْلَهَا" یعنی ہماری جانب نکال دیا "وَجَاءَ وَقَدْ لَفِظَ لِبِجَامِهِ" یعنی وہ آیا اس حال میں کہ پیاس اور تھکن کی وجہ سے تکلیف میں تھا..... وَتَلَفِظَ بِالشَّيْءِ: بولنا۔

الْلَفْظُ: مِصَّ سارے سر پر مارنا۔ لَفِظٌ (ض) وَلَفِيضٌ (س) لَفْظًا الشَّيْءُ وَبِالشَّيْءِ مِنْ قَبْضِهِ: منہ سے پھینکنا۔ ڈال دینا۔ صفت مفعول لَفِيضٌ وَمَلْفُوظٌ.....

الْبَحْرُ ذَابَةٌ: دریا کا کنارے پر پھینک دینا..... فَلَانٌ نَفْسَهُ أَوْ غَضَبَهُ: مرنا (عصب سے مراد تھوک ہے جو منہ سے چمٹ کر نکل جاتا ہے) اور کہا جاتا ہے "لَفَضْتُ إِلَيْنَا الْبِلَادَ أَهْلَهَا" یعنی ہماری جانب نکال دیا "وَجَاءَ وَقَدْ لَفِظَ لِبِجَامِهِ" یعنی وہ آیا اس حال میں کہ پیاس اور تھکن کی وجہ سے تکلیف میں تھا..... وَتَلَفِظَ بِالشَّيْءِ: بولنا۔

الْلَفْظُ: مِصَّ سارے سر پر مارنا۔ لَفِظٌ (ض) وَلَفِيضٌ (س) لَفْظًا الشَّيْءُ وَبِالشَّيْءِ مِنْ قَبْضِهِ: منہ سے پھینکنا۔ ڈال دینا۔ صفت مفعول لَفِيضٌ وَمَلْفُوظٌ.....

الْبَحْرُ ذَابَةٌ: دریا کا کنارے پر پھینک دینا..... فَلَانٌ نَفْسَهُ أَوْ غَضَبَهُ: مرنا (عصب سے مراد تھوک ہے جو منہ سے چمٹ کر نکل جاتا ہے) اور کہا جاتا ہے "لَفَضْتُ إِلَيْنَا الْبِلَادَ أَهْلَهَا" یعنی ہماری جانب نکال دیا "وَجَاءَ وَقَدْ لَفِظَ لِبِجَامِهِ" یعنی وہ آیا اس حال میں کہ پیاس اور تھکن کی وجہ سے تکلیف میں تھا..... وَتَلَفِظَ بِالشَّيْءِ: بولنا۔

الْلَفْظُ: مِصَّ سارے سر پر مارنا۔ لَفِظٌ (ض) وَلَفِيضٌ (س) لَفْظًا الشَّيْءُ وَبِالشَّيْءِ مِنْ قَبْضِهِ: منہ سے پھینکنا۔ ڈال دینا۔ صفت مفعول لَفِيضٌ وَمَلْفُوظٌ.....

الْبَحْرُ ذَابَةٌ: دریا کا کنارے پر پھینک دینا..... فَلَانٌ نَفْسَهُ أَوْ غَضَبَهُ: مرنا (عصب سے مراد تھوک ہے جو منہ سے چمٹ کر نکل جاتا ہے) اور کہا جاتا ہے "لَفَضْتُ إِلَيْنَا الْبِلَادَ أَهْلَهَا" یعنی ہماری جانب نکال دیا "وَجَاءَ وَقَدْ لَفِظَ لِبِجَامِهِ" یعنی وہ آیا اس حال میں کہ پیاس اور تھکن کی وجہ سے تکلیف میں تھا..... وَتَلَفِظَ بِالشَّيْءِ: بولنا۔

الْلَفْظُ: مِصَّ سارے سر پر مارنا۔ لَفِظٌ (ض) وَلَفِيضٌ (س) لَفْظًا الشَّيْءُ وَبِالشَّيْءِ مِنْ قَبْضِهِ: منہ سے پھینکنا۔ ڈال دینا۔ صفت مفعول لَفِيضٌ وَمَلْفُوظٌ.....

الْبَحْرُ ذَابَةٌ: دریا کا کنارے پر پھینک دینا..... فَلَانٌ نَفْسَهُ أَوْ غَضَبَهُ: مرنا (عصب سے مراد تھوک ہے جو منہ سے چمٹ کر نکل جاتا ہے) اور کہا جاتا ہے "لَفَضْتُ إِلَيْنَا الْبِلَادَ أَهْلَهَا" یعنی ہماری جانب نکال دیا "وَجَاءَ وَقَدْ لَفِظَ لِبِجَامِهِ" یعنی وہ آیا اس حال میں کہ پیاس اور تھکن کی وجہ سے تکلیف میں تھا..... وَتَلَفِظَ بِالشَّيْءِ: بولنا۔

الْلَفْظُ: مِصَّ سارے سر پر مارنا۔ لَفِظٌ (ض) وَلَفِيضٌ (س) لَفْظًا الشَّيْءُ وَبِالشَّيْءِ مِنْ قَبْضِهِ: منہ سے پھینکنا۔ ڈال دینا۔ صفت مفعول لَفِيضٌ وَمَلْفُوظٌ.....

الْبَحْرُ ذَابَةٌ: دریا کا کنارے پر پھینک دینا..... فَلَانٌ نَفْسَهُ أَوْ غَضَبَهُ: مرنا (عصب سے مراد تھوک ہے جو منہ سے چمٹ کر نکل جاتا ہے) اور کہا جاتا ہے "لَفَضْتُ إِلَيْنَا الْبِلَادَ أَهْلَهَا" یعنی ہماری جانب نکال دیا "وَجَاءَ وَقَدْ لَفِظَ لِبِجَامِهِ" یعنی وہ آیا اس حال میں کہ پیاس اور تھکن کی وجہ سے تکلیف میں تھا..... وَتَلَفِظَ بِالشَّيْءِ: بولنا۔

لَفَعَ بمعنى لَفَعَ..... الغلام: اپنی جانب سے بھاگ کر بھل گیا ہوتا..... فلان: بہت کھانا اور کہا جاتا ہے "لَفَعَ زَانَةً" جبکہ ڈھانپ لے۔

تَلَفَعَ: بڑھا پاتا۔ تَلَفَعَتِ النَّارُ: شعلہ بھڑکنا..... الحَرْبُ بِالسَّيْرِ: سبھی کو گھیر لینا..... النَّهْلُ: مال یعنی مویشیوں کو چرنے سے نفع پہنچنا..... القَوْمُ عَلَى خَيْشِ الْعَدُوِّ: دشمن کی فوج کو گھیر لینا اور سب کو قتل کر دینا..... والنَّفْعُ الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ وَالشَّجَرُ بِالْوَرَقِ: لینا۔ ڈھک جانا والنَّفْعَةُ الْأَرْضُ: سبزی سے ڈھک جانا۔

النَّفْعُ لَوْنُهُ: رنگ متغیر ہونا۔ السِّفَاعُ: چادر یا کپل۔ اُدْمَى كَاتِنُونَ: میں سے اگلے کھن۔

الْبِقَاعَةُ وَالْبِقِيعَةُ: قمیض کا پیوند۔ البِقِيعَةُ: چادر یا کپل وغیرہ۔

لَفَّقَ (ض) لَفَّقَا الثَّوْبَ: کپڑے کو دوہرا کر کے لینا..... الْأَمْرُ: طلب کرنا اور نہ پانا۔ الصَّفْرُ: شکار پر چھوڑا جانا اور شکار نہ کرنا۔

لَفَّقَ السَّحَابُ: باطل سے مزین کرنا..... الرَّجُلُ: طلب کرنا اور نہ پانا..... الشَّقِيئِينَ: دونوں سر سے ملا کر لینا اور کہا جاتا ہے "لَفَّقَ بَيْنَ الثَّوْبَيْنِ" جبکہ دوہرا کر کے سینے۔

تَلَفَّقَ بِهِ: الراجح ہونا..... خَابَتْهُمْ: درست ہونا۔

تَلَفَّقَ الْقَوْمُ: معاملات درست ہونا۔ السِّفَقُ: چادر کے دوپٹوں میں سے ایک پاٹ۔ اور دو آدمی جو جدا نہ ہوں۔ ان کے متعلق کہا جاتا ہے "هُمَا لِفَقَانٌ"۔

اللَّفَاقُ: مطلوب کو نہ پانے والا۔ السِّفَاقُ: دو کپڑے جو ایک ساتھ ملا کر جوڑے گئے ہوں اور ان میں سے ہر ایک کپڑے کو لِفَاقٌ کہتے ہیں۔

السِّفِيكُ وَالْأَلْفِكُ: بے وقوف۔ اللِّفِيكُ: بانیں ہاتھ سے کام کرنے والا۔ لَفَلَفَ: گفتگو میں عاجز و درماندہ ہونا۔ خوب اچھی طرح سے کھانا..... فَبِي ثَوْبِهِ: کپڑے

میں پلٹنا۔ تَلَفَلَفَ بِثَوْبِهِ: کپڑے میں پلٹنا۔

السِّلْفُ وَالْفِلْفُ: کزور..... والمُفْلَفُ: کلام میں عاجز و درماندہ۔ لَفَمَتْ (ض) لَفَمَا وَتَلَفَمَتْ وَتَلَفَمَتْ: الْمَرْأَةُ: عورت کا نقاب ڈالنا۔ تاک پر نقاب باندھنا۔ تَلَفَمَ بِعِمَامَتِهِ: ڈھانا باندھنا۔ لَفَمَتِ الْمَرْأَةُ لَهَا: منہ پر نقاب ڈالنا۔ لَفَمَةُ: مضبوط باندھنا۔ اللِّفَامُ: تاک کے اوپر کا نقاب۔

لَفَا يَلْفُو لَفْوًا فَلَانًا حَقَهُ: جن کم کرنا..... اللَّحْمُ عَنِ الْعَظْمِ: ہڈی سے گوشت اتارنا۔ أَلْفَاهُ الْفَاءُ: پانا۔ تَلَفَى الْأَمْرُ: تدارک کرنا۔ اللِّفِيَّةُ: گوشت کا ٹکڑا۔ ج لَفَانًا.

السِّفَاءُ: مٹی۔ خیس۔ حقیر اور کہا جاتا ہے "رَضِيَ فَلَانٌ مِنَ الْوَفَاءِ بِاللِّفَاءِ" فلاں شخص اپنے پورے حق میں سے تھوڑے پر راضی ہو گیا۔

التَّلَافِي: مص خون کا بدلہ حاصل کرنا۔ لَفَّ (ن) لَفَّ عَيْنُهُ: آنکھ پر ہاتھ سے مارتا۔ صفت لاق. ج لَفَقَةٌ.

السَّقُّ: بس زین میں شگاف۔ بلند زین۔ بہت بولنے والا۔ ہرنگ اور لمبی زین۔ السَّقْفَةُ: لاق. کی جمع۔ تنگ منہ کے گڑھے۔ کہا جاتا ہے "زَجَلْ لَسَاقٌ بِسَاقٍ" بہت باتونی مرد۔

لَقَّبَ فَلَانًا بِكَذَا: لقب دینا۔ لَاقِبُهُ: بڑے القاب سے گالی دینا۔ تَلَقَّبَ بِكَذَا: لقب پانا۔

تَلَاقَبَ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو بڑے لقب سے گالی دینا۔

اللقب: اصلی نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام جو اپنے وضع اول کے اعتبار سے مدح یا ذم کی طرف مشعر ہو۔ ج القاب.

لَفَخَ (ف) لَفَخَا النُّخْلَ: نر کھجور کا ٹھونڈا مادہ کھجور میں ڈالنا۔

لَفَحَتْ (س) لَفَخَا وَلَفَخَا وَلَفَاخَا النَّاقَةَ وَنَحَوُهَا: حاملہ ہونا۔ صفت لاقح و لَفُوح. (..... لَفَخَا) الْحَرْبُ: سکون کے بعد بجزک اٹھنا۔ الْمَرْأَةُ وَالنُّخْلَةُ: حاملہ ہونا۔

الْفَخُّ النَّخْلَةُ: نر کھجور کا ٹھونڈا مادہ کھجور میں ڈالنا۔

الْفَخْلُ النَّاقَةُ: حاملہ کرنا۔ گاجھن کرنا۔ صفت مفعول مَلْفُوحَةٌ: ج مَلْفُوحٌ. الْفَخُّ: بَيْنَهُمْ شَرًّا: فساد پیدا کرنا۔ الْفَخْحُ: الرَّيْحُ الشَّجَرُ أَوْ السَّحَابُ: بار دار کرنا۔ لَفَخَ النَّخْلَةَ: نر کھجور کا ٹھونڈا مادہ کھجور میں ڈالنا۔

تَلَفَحَتِ النَّاقَةُ: حاملہ نہ ہوتے ہوئے حاملہ جیسی معلوم ہونا۔ کہا جاتا ہے "تَلَفَحَ زَيْدٌ عَلَيَّ" زید نے میری طرف نا کردہ گناہ کی نسبت کی..... يَذَاهُ: گفتگو کرنے میں دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرنا۔

الْفَخْحُ الْأَنْثَى: مادہ منویہ کو قبول کرنا۔ اسْتَلْفَحَتِ النَّخْلَةَ: نر کھجور کے ٹھونڈے کو مادہ کھجور میں ڈالنے کا وقت قریب آنا۔

السِّفَاحُ: مص۔ نر کھجور کا ٹھونڈا جو مادہ کھجور میں ڈالا جائے۔

السِّفَاحُ: لَفُوح: کی جمع۔ گھوڑے اونٹ کا مادہ منویہ۔

السِّفَاحُ: مص۔ حاملہ ہونا۔ السِّفَاحَةُ: دانی پلائی۔ عقاب۔ کوا۔ ج لَفِحَ وَلَفَاحُ. السِّفَاحَةُ: نفس۔ ج لَفَاحُ. السِّفَاحَةُ وَالسِّفَاحَةُ: ج لَفِحَ وَلَفَاحُ وَالسِّفُوحُ: ج لَفَاحُ وَالسِّفَاحُ: بہت دودھ دینے والی اونٹنی۔

السِّفَاحُ: فَا- رِيْحٌ لَاقِحٌ: وہ ہوا جس سے درخت بار دار ہو جائیں۔ وہ اونٹنی جو مادہ منویہ کو قبول کرے۔ ج لَوَاقِحُ. السِّفُوحُ: وہ اونٹنی جو مادہ منویہ کو قبول کرے۔ ج لَفِحُ.

الْوَوَاقِحُ وَالْمَلَاقِحُ: حاملہ عورتیں۔ الْمَلَوَاقِحُ

جائے۔
 اللَّقِيطَةُ: لَقِيطٌ: کاموٹ۔ رذیل مرد یا عورت رج لَقِيطٌ کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ لَقِيطِي خَلِيطِي“ چغلی کھانے کے لئے خبروں کے کھوج میں رہنے والا مرد۔
 اللَّسْقَاطُ: آوارہ وادپاش لوگ۔ تھوڑے سے متفرق لوگ۔
 اللَّسْقَطُ: مطلب۔ دھات کی کان۔ کہا جاتا ہے یا مَلْقَطَانٌ یعنی اے بے وقوف۔ مَوْنُثٌ مَلْقَطَانَةٌ۔
 اللَّسْقَطُ: جس سے اٹھایا جائے جیسے دہنہا۔ موچنا۔ ج ملاقط۔
 اللَّسْقَاطُ: قلم۔ نقش کرنے کا آلہ۔ مَکْرِي۔ ج ملاقط۔
 اللَّسْقُوطُ: مفتوح نومولود بچہ کا ہوا بچہ۔ جو اٹھایا جائے۔ ج ملاقط۔
 لَقَعَ (ف) لَقَعَا الشَّيْءُ: چھینکنا۔ فَلَانَا بِعَيْنِهِ: نظر بد لگانا۔ لَقَعْنَاهُ الْحَيَّةَ: سانپ کا ڈسنا۔ لَقَعَ فَلَانَا: عیب لگانا۔ لَقَعْنَاهُ بِالْكَلَامِ: کلام میں غالب آنا۔
 لَقَعَ (ف) لَقَعَانَا: تیز گزرتا (..... لَقَعَانَا) عیب دار ہونا۔
 لَقَعَ فَلَانَا بِالْكَلَامِ: کلام میں غالب آنا۔
 تَلَقَعَ بِالْكَلَامِ: بکواس کرنا۔
 التَّلْعُ لَوْنُهُ: رنگ متغیر ہونا۔
 اللَّقَاعُ وَاللَّقَاعُ: سبز رنگ کی کبھی جو لوگوں کو کاٹی ہے۔ و احد لَقَاعَةٌ وَلَقَاعَةٌ۔
 اللَّسْقَعَةُ اللَّسْقَاعَةُ وَاللَّقَاعُ وَاللَّبْلِقَاعُ وَاللَّبْلِقَاعَةُ: بے وقوف۔ لوگوں کے عیوب نکالنے والا۔ برے لقب رکھنے والا۔ بہت باتونی۔ کہا جاتا ہے اَمْرَأَةٌ تَلْقَعُ وَتَلْقَعُ: بے ہودہ گوعورت۔
 لَقِفَ (س) لَقِفْنَا وَلَقَفْنَا وَالنَّقْفُ الشَّيْءُ: جلدی سے لینا۔
 لَقِفَ (س) لَقِفْنَا الْحَوْضَ: نیچے سے گر کر وسیع ہونا۔ صفت لَقِيفٌ..... الْحَائِطُ: دیوار کا گزنا۔

لَا قَطَهُ لِقَاطًا وَمَلَقَطَةً: مقابل ہونا۔ لَاقَطَ الْقَرَمِ: چاروں ٹانگیں پکڑ لینا۔
 اِنْتَقَطَ الشَّيْءُ: بغیر قصد وطلب کے مطلع ہونا..... الشَّيْءُ: زمین سے اٹھانا..... اللَّيْقَاطُ: جمع کرنا (..... وَتَلَقَطُ) الشَّيْءُ: ادھر ادھر سے جمع کرنا۔
 اللَّفْطُ: اٹھائی ہوئی چیز۔ چھوارے وغیرہ کا چھوار۔ و احد لَفْطَةٌ. لَقَطُ الْمَعْدِنِ: سونے وغیرہ کے ٹکڑے جو کان میں ملیں۔ کہا جاتا ہے ”فِي الْمَسْكَانِ لَقَطٌ لِلْمَأْشِيَةِ“ یعنی مکان میں جانور کے لئے تھوڑا سا چارہ ہے۔
 اللَّسْقَطَةُ: ایک قسم کی اچھی سبزی جس کے جانور چیس ہوتے ہیں۔ ج لقط۔
 اللَّسْقَطَةُ وَاللَّقَطَةُ: وہ چیز جو تم کو راستہ میں پڑی ہوئی ملے اور تم اٹھا لو یا وہ شے متروک جس کا مالک معلوم نہ ہو۔
 اللَّفْقَاطُ وَاللَّقْفَاطُ: خوش جس کو کھیتی کائنے والا خطا چھوڑ دے اور لوگ اسے چن لیں۔ پڑی ہوئی چیز جو تمہیں ملے اور تم لے لو۔
 اللَّيْقَاطُ: گرے ہوئے خوشوں کا جمع کرنا۔ اور کہا جاتا ہے ”ذَاوَةٌ يَلْقَاطُ ذَارِي“ اس کا مکان میرے مکان کے مقابل ہے۔
 وَ”لَقِيفَةُ لِقَاطًا“ میں اس سے رو در رولا۔
 اللَّسْقَاطَةُ: گرے ہوئے خوشے۔ گری پڑی بے قیمت چیز۔ ج لفقاط۔
 اللَّيْقَاطُ: نا۔ بھیت کٹنے کے بعد خوشے چننے والا۔ آزاد کردہ غلام۔
 اللَّيْقَاطَةُ: لَاقِطٌ کاموٹ اور اسی سے مثل ہے ”لِكُلِّ سَاقِطَةٍ“ لَاقِطَةٌ“ یعنی ہر کلمہ جو منہ سے نکلے اس کے لئے کوئی نہ کوئی سننے والا ہے (حفاظت زبان کی صحت کے موقع پر بولا جاتا ہے) اللَّيْقَاطَةُ: رذیل مرد یا عورت۔ لَاقِطَةُ الْحَصْنِي: پرندہ کا سنگدانہ۔
 اللَّيْقَاطُ اللَّيْقَاطَةُ: بہت اٹھانے والا۔
 اللَّيْقَاطُ: اٹھایا ہوا۔ نومولود بچہ جو چھینک دیا

مِنَ السَّرِيحِ: درختوں کو باردار کرنے والی ہوائیں۔ بارش لانے والی ہوائیں۔
 اللَّوْفَاحُ: کوڑے۔
 الْمَلْفَاحُ: حاملہ کرنے والے۔ و احد مَلْفَاحٌ: حاملہ عورتیں و احد مَلْفَاحَةٌ۔
 الْمَلْفَاحُ: مفتح۔ آزمودہ کار۔
 الْمَلْفَاحِيحُ: نائیں۔ و احد مَلْفَاحَةٌ: جنین۔ مادہ منویہ۔
 لَقْرَةٌ (ن) لَقْرًا: مکارنا۔
 لَقْسُهُ (ن ض) لَقَسًا: عیب لگانا۔ صفت لَاقِسٌ۔
 لَاقِسٌ: لَقَسْتُ (س) لَقَسْنَا نَفْسَ فَلَانٍ إِلَى الشَّيْءِ: دل کھینچنا۔ مائل ہونا..... نَفْسُهُ مِنْ الشَّيْءِ: جی متلانا۔ صفت لَقِسَةٌ. وَلَقِسَ بِأَمْرٍ: بھیننا۔ صفت لَقِسٌ۔
 لَاقَسَ لِقَاسًا وَمَلَاقَسَةً: ایک دوسرے کو بُرا لقب دینا۔
 تَلَقَسَتْ نَفْسُهُ مِنَ الشَّيْءِ: تنگ ہونا۔
 تَلَاقَسَ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو گالی دینا۔
 اللَّفْسُ وَاللَّقَاسُ: خارش۔
 اللَّيْقَسُ: لوگوں کا مذاق اڑانے والا اور بُرے القاب دینے والا۔ بدخلق۔ ہر چیز کا لاپچی۔ جو ایک طریقہ پر مستعمل نہ رہے۔
 الْمَلْفَاقِسُ: صبر کرنے والا۔ سَنَنَ لَقَسًا: پرانی تنگ۔
 لَقَصَ (ض) لَقَصْنَا الشَّيْءَ جِلْدَهُ: کھال کو جلاتا۔
 لَقِصَ (س) لَقِصْنَا الشَّيْءَ: تنگ ہونا۔
 لَقِصَتْ نَفْسُهُ: جی متلانا۔
 اِنْتَقَصَ الشَّيْءُ: لینا۔
 اَللَّقِصُّ: تنگ۔ شرات میں جلدی کرنے والا۔ بہت باتونی۔
 لَقَطَ (ن) لَقَطْنَا الشَّيْءَ: زمین سے اٹھانا..... اَلْعِلْمُ مِنَ الْحَبِّ: مختلف کتابوں سے حاصل کرنا..... الثَّوْبُ: پیوند لگانا..... الطَّائِرُ الْحَبُّ: پرندہ کا چوچ سے چگنا۔ صفت لَاقِطٌ وَلَقَاطٌ۔

لَقْفَةُ الشَّيْءِ: اُكْحِنُكَ كَ لِقْحِنِي كَمَا.....
الطَّعَامَ: لَقَّوْنَا - لَقَّفَ الطَّعَامَ: لَقْنَا.....
الْفَرْسُ: دَوَاغِلِي نَاغُولُ سَخْتِي سَ رَوْدَمَا -
تَلَقَّفَ الشَّيْءُ: جَلَدِي سَ لَيْنَا..... الطَّعَامَ:
لَقْنَا..... الْحَايِطُ أَوْ الْحَوْضُ: دِيَاوِرِيَا
حَوْضُ كَا مَهْدَمُ هَوْنَا - گَرْنَا - كَمَا جَاتَا هَ
"تَلَقَّفَ مِنْ فِيهِ كَذَا" جَبْهَةً كَمَا سَ نَ كَرِيَا
كَرَى -

اللقف: مضم - کنوئیں یا حوض کا کنارہ -
ج اللغات: اللقف: بمعنی اللقفاق وتلقف:
یعنی جلدی سے لینا -
اللقفاق: حداقت - ہوشیاری -

اللقف واللقف واللقف ولللقف من الرجال:
چست وزیرک - کہا جاتا ہے "زَجَلُ لَقْفُ
لَقْفٌ وَتَقْفٌ لَقْفٌ وَتَقْفٌ لَقْفٌ"
لَقْلُقُ: اللَقْلُقُ: سَارِسُ كَا آوَازِ كَرْنَا -

لَقْلُقْتُ: الْحَيَّةُ: سَانِبُ كَا زَبَانُ كَا لَانَا -
لَقْلُقَ الشَّيْءُ: حَرَكْتُ دِينَا -
تَلَقْلُقُ: الشَّيْءُ: يَلْنَا -

اللقلق ج لقالق واللقلاق: سارس کی قسم کا
ایک پرندہ ہے جس کی گردن اور ناکھیں لاجبی
ہوتی ہیں اور سانیوں کو کھاتا ہے - ذکاوت
اور فطانت کے ساتھ متصف ہے اور اس کی
کنیت "أَبُو حُدَيْجٍ" ہے اللقالق: زبان -

اللقلاق: آواز - شور -
اللقلقة: سارس کی آواز - ہر آواز جس میں
حرکت واضطراب ہو اور کہا جاتا ہے "فِئْسِي
لِسَانِهِ لَقْلُقَةٌ" یعنی اس کی زبان میں رکاوٹ
ہے - ج لقالق -

حُرُوفُ اللَقْلُقَةِ: ب' ج' ذ' ط' ق' - حُرُوفُ
مُلَقْلُقٍ: تیز نگاہ جو ایک جگہ میں نہ ٹھہرے -
لَقَمٌ (ن) لَقَمًا الطَّرِيقُ وَغَيْرُهُ: رَاسْتَا كَا
دِهَانًا بَدْرَكْنَا -

لَقَمٌ (س) لَقَمًا الطَّعَامَ: جَلَدِي كَمَا تَا بَرْبِ
كَرْنَا -

لَقَمَةٌ وَاللَقَمَةُ الطَّعَامُ: لَقْرًا كَمَا تَا - كَمَا جَاتَا
ہے "الْقَمَةُ الْحَجَرُ" یعنی اس نے اسے

خاموش کر دیا -
تَلَقَّمَ الشَّيْءُ: جَلَدِي سَ كَمَا تَا - بَرْبِ كَرْنَا -
..... الْمَاءُ فِي بَطْنِهِ: پَانِي كَا زِيَادِي كِي وَجْهٍ
سَ بِيْتِ مِيں بَوْنَا -

الْتَقَمَ الطَّعَامَ: لَقْنَا - كَمَا جَاتَا هَ "الْتَقَمَ
أُذُنَهُ" یعنی چکے چکے کان میں بات کی -
الْتَقَمَ وَالْتَقَمَ: رَاسْتَا كَا بَرَاصَةً - رَاسْتَا كَا
دَرَمِيَانًا -

اللقمة لقم: کا اسم مرہ -
اللقمة: ایک مرتبہ جتنا لقا جائے - ج لقم -
اللقيم: لقمہ -

اليلقَامُ وَالْيَلْقَامَةُ وَالْيَلْقَامُ وَالْيَلْقَامَةُ:
بُزْءُ بَزْءِ لَقْمَةٍ تَلْقَى وَاللَّيْلَامُ -

زَكِيَّةٌ مُتَلَقِّمَةٌ: بہت پانی والا کنواں -
لَقْنٌ (ك) لَقَانَةٌ: تیز فہم و ذکی ہونا -

لَقْنٌ (س) لَقْنَا وَلَقْنَا وَلَقَانَةٌ وَلَقَانِيَّةٌ
وَتَلَقَّنَ الْكَلَامَ مِنْ فُلَانٍ: بِالشَّفَا حَاصِلُ كَرْنَا
اور سمجھنا -

لَقَّنَهُ الْكَلَامَ: بِالشَّفَا سَمَّجَانَا -
الْقَنَّ الْكَلَامَ: جَلَدِي سَ يَادِ كَرْنَا -

اللقن: ستون - کنارہ -
اللقانة واللقانية: مضم - زود فہمی -

اللقن: زود فہم - تیز سمجھ - کہا جاتا ہے "هُوَ
تَقِفٌ لَقْنٌ" یعنی وہ سنی ہوئی چیز کو بہت جلدی
سمجھنے اور یاد کرنے والا ہے -

اللقن: لگن (دخیل)
اللقن: تانے کا برتن ہاتھ دھونے کے لئے -
اللقن: پیت کا نچلا حصہ -

لَقَا يَلْقَوْنَ لِقْوًا فَلَاتَا: بِتَلَا لِقْوَهُ كَرْنَا -
لَقِي لِقْوًا: بِتَلَا لِقْوَهُ هَوْنَا -

اللقوة: ایک بیماری ہے جس سے منہ ایک
جانب کو تیز ہا ہوجاتا ہے (.....) واللقوة)
مادہ عتاب - تیز عتاب - ج لقاء واللقاء -
الملقو: لقوہ زدہ -

لَقِي يَلْقِي لِقَاءً وَلِقَاءَةٌ وَلِقَائَةٌ وَلِقَاءَةٌ
وَلَقِيَانًا وَلَقِيَانًا وَلَقِيَانَةً وَلَقِيَانَةً
وَلَقِيَةً وَلَقِيَةً فَلَاتَا: اسْتَبْطَلَا كَرْنَا - پَانَا -

دیکھنا - ملاقات کرنا -
لَقِي تَلْقِيَةً فَلَاتَا الشَّيْءُ: بِيْحِنَانَا -

لا قى لقاۃ و ملاقاتۃ الرجل : پانا - ملاقات
کرنا - کہا جاتا ہے "لا قى بين طرفى
القصيب" شاخ کے دونوں کنارے موڑ کر
ملانا اور کہا جاتا ہے "لوقى بينهما"

اللقى الشئ الى الأرض: ڈال دینا..... اليه
القول والقول: پہنچانا..... عليه القول:
الملاء کرنا..... پہنچنا..... فيه الشئ: رکھنا.....
عنه الشئ: ڈال دینا..... اليه السمع:
کان لگانا..... اليه خيرا: بہتر سلوک کرنا
..... اليه بالا: پروا کرنا اور کہا جاتا ہے
"القيت اليه المودة و بالمودة" میں نے
اُس سے محبت کی -

تلقى الشئ: ملنا - استقبال کرنا..... الشئ
منه: سیکھنا..... تلقت المرأة: عورت کا
حامل ہونا - صفت متعلق -

التقى الشئ: ملنا (.....) وتلقى القوم:
باہم ملنا - وتلاقوا: باہم جھگڑا کرنا -

استلقى على قفاه: چت سونا -
اللقى: چھٹکلی ہوئی چیز - ج القاء -

اللقية واللقية: مضم - اللقية: لقی کا اسم
مرہ - ج لقی کہا جاتا ہے "لقيه لقي
كخيرة" میں نے اس سے بہت ملاقات کی -
اللقى: پرندے - درد - تمام حیوان جو جلدی
گاہچن ہوجائیں -

اللقاء: لقاء کا اسم ہے -
اللقاء: لقاء کا اسم - ملاقات کی جگہ - کہا
جاتا ہے "جلس تلقاء" یعنی وہ اس کے

مقابل بیجا "وفعل الأمر من تلقاء نفسه"
یعنی اس نے اس کام کو خود بخود بغیر کسی کے
مجبور کئے ہوئے کیا -

اللقاء: راستہ کا درمیان -
اللقى: خیر یا شر کے لئے ملاقات کرنے
والا - اور اکثر استعمال شری کے لئے ہوتا
ہے - مؤنث لقیۃ اللقی: آنے سے سامنے
آنے والا - کہا جاتا ہے "ہما لقیان"

وَلَقَبَانٌ“ وہ دونوں آمنے سامنے آنے والے ہیں ”وَهُوَ شَقِي لَقِي“ کے جملہ میں لقی تابع مہمل ہے۔

السَّلَاءُ: خیر یا شر کے لئے ملاقات کرنے والا۔ شر میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔

الْأَلْقِيَّةُ: چیتان۔ پھیلی۔ جِ الْأَقْسَى: الأَلْقَى: سختیاں۔

السَّلْفِيُّ وَالسَّلْفِيُّ: ملنے کی جگہ۔

السَّلَاقِيُّ: مَلَقِي کی جمع۔ مَلَقِيُّ الْأَجْفَانِ: چپوٹوں کے ملنے کی جگہ۔

السَّلَاقِيُّ: مَسْ يَوْمُ السَّلَاقِيِّ: قیامت کا دن۔ السُّمَلَاقِيُّ: فَا۔ اوزان شہر میں سے ایک وزن۔

السُّلْفِيُّ: چیز ڈالنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے ”هَذَا مُلْقَى الْكُنَاسَاتِ“ یہ کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ ہے و ”فَسَاءَ فَلَانٌ مُلْقَى السَّرْحَالِ“ فلاں کا مہن دار کچاؤں کے اتارنے کی جگہ ہے۔ کنا یہ ہے اس سے کہ

فلاں بڑا مہمان نواز ہے۔

السُّلْفِيُّ وَالسُّلْفِيُّ وَالسُّلْفِيُّ: خیر یا شر کے لئے ملاقات کرنے والا۔ شر میں زیادہ استعمال ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے ”فَلَانٌ مُلْقِي“ فلاں مصائب سے آزما یا ہوا ہے۔

وَالشَّجَاعُ مُوْقِي وَالْجَبَانُ مُلْقِي کہا جاتا ہے ”هُوَ جَسَارِي مُلَاقِي“ وہ میرا مقابل پڑتی ہے۔

لُكْحَةُ (ن) لُكْحًا: گدی پر مکار مارنا۔

بِحَيْثُ جَمَانَا لُكْحُ اللَّحْمِ: گوشت کو بڈی سے جدا کرنا۔ الشَّيْ: ملا۔ الْمَجْلَدُ: لک سے کھال رنگنا۔

الْبُورْدُ: گھاٹ پر آنے والوں کا بھیڑ کرنا۔ الْعَسْكَرُ: لشکر کا آپس میں ملنا۔

جَبُومُ كَرْنَا..... هِنِي تَمَلَّجِبُه: غلطی کرنا..... هِنِي حُجَّيْبُه: دیر لگانا۔

الْبَلْسَاكُ: بھیڑ۔ اِثْرُ حَامٍ: سخت گوشت والی اونٹنی جِ لُكْحُ وَلُكْحَاكُ:

السَّلْكُ: مَسْ۔ گوشت۔ ایک سرخ رنگ

جس سے کھال رنگتے ہیں۔ ایک نباتات جس سے گوند بناتا ہے..... جَعْدُ حُسَابِ الْمَوَلِدِينَ: لاکھ جِ الْكَاكُ وَلُكْحُوكُ.

السَّلْكُ وَاللُّكُ: نباتات مذکورہ کا عصا رہ یا اس کی تلچھٹ۔ لک سے رنگی ہوئی کھال کا چھیلین۔ سخت و پُر گوشت۔

السَّلْكَةُ: شدت۔ السَّلْجَاءُ: مِنَ الْمَجْلُودِ: لک سے رنگی ہوئی کھال۔ رَجُلٌ لُكْحِي: موٹا سخت گوشت والا آدمی۔

السَّلْكُ: مَجْحَانٌ لُكْرُ: سخت گوشت۔ سخت اور موٹے گوشت والا۔ قَطْرَانُ: ایک کمزور درخت۔ جِ الْكَاكُ.

السَّلْكُوكُ: سخت موٹے گوشت والا۔ سَكْرَانٌ مُلْتَكٌ: مست جوستی کی وجہ سے خشک ہو گیا ہو۔

لُكْحًا (ف) لُكْحًا بِالسُّوْطِ فَلَانًا: کوڑے سے مارنا۔

..... فَلَانًا: پچھاڑنا..... بِه الْأَرْضُ: زمین پر پک دینا..... الرُّجُلُ: پورا حق دینا۔

لُكْحِي (س) لُكْحًا بِالْمَكَّانِ: اقامت کرنا..... بِفَلَانٍ: لازم ہونا۔ چمٹنا۔

تَلْكْحًا تَلْكْحُوا عَلَيْهِ: غدر کرنا۔ بہانہ کرنا..... عَنِ الْأَمْرِ: دیر کرنا۔ توقف کرنا۔ بچکچانا۔

لُكْحَةُ (ن) لُكْحًا بِالسُّوْطِ: کوڑے سے مارنا۔ لُكْحْتُ فَلَانًا: طاقت سے زیادہ بوجھ لادنا۔

لُكْحُ (س) لُكْحًا الْبَعِيْرُ: مزہ میں پھنسیوں والا ہونا..... الْوَسْخُ عَلَيْهِ وَبِه: میل چمٹنا۔

السَّلْكُ: مَسْ۔ دودھ کا میل جو دودھ کے برتن کے کناروں پر جم جائے۔ اونٹ کے مزہ کی پھنسیاں۔ نَاقَةٌ لُكْحَةٌ: موٹی اونٹنی۔

السَّلْكَاثُ: اونٹ کے مزہ کی پھنسیاں۔ چونے کے چمکنے والے پتھر۔

السَّلْكَاثِيُّ: بہت سفید۔ السَّلْكَاثُ: چونہ بنانے والا۔

لُكْحَةُ (ف) لُكْحًا: مکار مارنا۔

لُكْحَةُ (ن) لُكْحًا: ہاتھ سے مارنا۔ ہٹانا۔ لُكْحُ (س) لُكْحًا الْوَسْخُ عَلَيْهِ فَلَانٌ وَبِه: میں چمٹا۔ چمٹنا لُكْحُ الشَّغْوُ: ہالوں کا گتھا ہوا ہونا۔

لَا تَلْكْحُوا الْفُلَّ: طوق سے لگے رہنا..... قَيْدُهُ: بیڑی کی وجہ سے اچھی طرح نہ چل سکتا فلانا: لازم ہونا۔ چمٹنا۔

تَلْكْحُ فَلَانٌ: موٹے گوشت والا ہونا۔ الشَّيْ: چمٹنا..... بِه او عَلَيْهِ الْوَسْخُ: میل کا جم جانا..... فَلَانًا: گردن میں ہاتھ ڈالنا۔

السَّلْكَةُ فَلَانًا وَبِفَلَانٍ: چمٹنا اور جدا نہ ہونا۔ اللُّكْحُ: بد خلق۔ بخیل۔

الْأَلْكُدُ: کمینہ قوم سے ملا ہوا۔ الْبِلْكُدُ: کونٹے کا دست۔

لُكْرُهُ (ن) لُكْرًا: مکار مارنا۔ لُكْرُهُ: مکار بازی کرنا۔ ایک دوسرے کو مکار مارنا۔

فَلَا لُكْرًا: ایک دوسرے کو مکار مارنا۔ الْبَلْكَازُ: جھیترا جس سے چرخی کے دھرے کو تنگ کرتے ہیں۔

الْبَلْكُزُ: بخیل۔ السُّلْكُزُ: ذلیل۔ دروازوں سے بنایا ہوا۔

لُكْسٌ کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ شَكْسٌ لُكْسٌ“ یعنی مرد دُشوار خو۔ سرکش نافرمان۔

لُكْشُهُ (ض) لُكْشًا: مکار مارنا۔ لُكْشُهُ (ن) لُكْشًا: مکار مارنا۔

لُكْعُهُ (ف) لُكْعًا الْعَقْرُبُ: بچھو کا ڈسنا لُكْعُ الرُّجُلُ: سخت ست سنانا..... الْمَوْلُدُ: بچے کا دودھ چھوٹنے کے قریب ہونا۔ کہا جاتا ہے ”فَرَّ كُنْهَ يَلْكُعُ“ میں نے اس کو کھاتا پیتا چھوڑا۔

لُكْعُ (س) لُكْعًا وَلُكَاعُهُ: نسیم ہونا۔ بے وقوف ہونا..... لُكْعًا عَلَيْهِ الْوَسْخُ: میل چمٹنا۔ کہا جاتا ہے اِسْرَاقَةُ لُكَاعُ: یعنی علی انکسر: یعنی اسے نسیم اور نہ ابی میں استعمال ہوتا ہے۔

رَجُلٌ لُكْعٌ: نسیم و کمینہ مرد۔

(۱) لَمْ: کی طرح فعل مضارع کو ماضی منقحی کے معنی میں کر دیتا ہے مگر مندرجہ ذیل پانچ باتوں میں فرق ہے۔

(الف) حرف شرط کے ساتھ نہیں آتا مثلاً: **إِنْ لَمْ أَتَقَمَّ** نہیں کہا جاتا ہے اور **إِنْ لَمْ تَقَمَّ** کہا جاتا ہے۔

(ب) لَمْ: کے منقحی میں استغراق ہے اور لم: کے منقحی میں انقطاع جیسے **لَمْ يَكُنْ شَيْئًا** **هَذَا كُحْرًا** اور اس وجہ سے **لَمْ يَكُنْ لَمْ تَمَّ** **كَمَانَ** کہا جاتا ہے اور **لَمْ يَكُنْ لَمْ تَمَّ كَمَانَ** نہیں کہہ سکتے۔

(ج) لَمْ: کا منقحی اکثر حال کے قریب ہوتا ہے بخلاف منقحی لم: کے۔

(د) لَمْ: کا منقحی متوقع ہوتا ہے بخلاف منقحی لم: کے۔

(ه) لَمْ: کے منقحی کو قرینہ کی بنا پر حذف کیا جاتا ہے جیسے **فَجِئْتُ فَيَسُورُهُمْ بَدَأَ** **وَلَمْ** یعنی **لَمْ يَكُنْ بَدَأَ أَقْبَلَ ذَلِكَ** اور **وَصَلَّتْ إِلَى بَغْدَادَ وَلَمْ** یعنی **لَمْ أَذْخُلْهَا** کہا جاتا ہے۔

(۲) لَمْ: ماضی کے ساتھ مختص ہے۔ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے جس میں سے فعل ثانی کا وجود فعل اول پر موقوف ہے۔ جیسے **لَمْ يَأْتِ بَدَأَ فَعَلَّ** اور اس صورت میں اس کو حرف وجود لولوا کہا جاتا ہے (اور بعض حرف وجوب لوجوب کہتے ہیں) اور بعضوں نے کہا ہے کہ یہ فعل کے لئے طرف ہے جو غیر کے واقع ہونے سے واقع ہو اور ایک جماعت نے کہا ہے کہ یہ حین کے معنی میں طرف ہے۔

(۳) لَمْ: حرف استثناء ہے الّا کے معنی میں۔ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے۔ جیسے **إِنْ كَلَّ نَفْسٌ لَمْ يَأْتِهَا حَافِظٌ** ان لوگوں کی قرأت میں جو میم کو مشدد پڑھتے ہیں۔ اور ماضی لفظ پر داخل ہوتا ہے جیسے **أَنْتَ لَمْ تَكُنْ** **اللَّهُ لَمْ يَفْعَلْ** یعنی **مَا أَنْتَ إِلَّا فَعَلْتَ**۔

لیکن اس کی اصل لاکن ہے۔ الف کتابت میں مخذوف ہے پڑھنے میں نہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) یہ کہ قبیلہ سے مخفف ہو اس صورت میں عمل باطل ہوتا ہے اور حرف ابتداء ہے دو جملوں پر داخل ہوتا ہے اور کبھی واو کے ساتھ بھی ہوتا ہے جیسے **فَسَامٌ زَيْدٌ وَلَكِنْ عَمْرُوٌ جَالِسٌ**۔

(۲) یہ کہ اصل وضع سے مخفف ہو اور اس وقت یہ حرف عطف ہے اگر عطف جملہ علی الجملہ ہو تو واو لانا ضروری ہے اور اگر اس کے بعد مفرد ہو تو واجب ہے کہ واو نہ آئے اور اس سے پہلے نی یا ٹی کا ہونا ضروری ہے جیسے **فَسَامٌ زَيْدٌ لَكِنْ عَمْرُوٌ** و **لَا تَضْرِبْ زَيْدًا لَكِنْ عَمْرُوًا**۔

اللكن: لکن۔ ج الکان (دخیل) لیکن اس کی اصل لاکن ہے۔ الف کتابت میں مخذوف ہے پڑھنے میں نہیں اور یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے اور اشتراک یعنی دفع توہم کے لئے آتا ہے۔ جیسے **فَسَامٌ الْقَوْمُ لَكِنْ زَيْدٌ جَالِسٌ** اور بھی تاکید کے لئے جیسے **لَوْ زَارَنِي زَيْدٌ لَا كُفْرُهُ لَكِنَّهُ لَمْ يَجِبْ** **لَوْ** سے جوئی سمجھ میں آتی تھی اس کی لکن سے تاکید ہوگی۔

لَكِي لَكِي لَكِي لَكِي بہ: مشتاق ہونا۔ چننا۔ صفت لکئی لکئی لکئی بالتمکان: اقامت کرنا۔ اللاحی: عیب جو (لامنک) کا مقلوب ہے) لَمْ: حرف جزم ہے۔ فعل مضارع کو ماضی منقحی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ جیسے **لَمْ يَأْتِ** اس نے نہیں کھایا اور لم پر ہمزه استفہام داخل ہوتا ہے۔ لم کا عمل باقی رہتا ہے اور تقریر و توجیح کا فائدہ دیتا ہے جیسے **أَلَمْ أَقُلْ لَكُ** کیا میں نے تم سے نہیں کہا اور کبھی ہمزه اور لم کے درمیان واو اور فاعلی لاتے ہیں۔ جیسے **أَلَمْ أَقُلْ لَكُ** او **لَمْ أَوْذَيْكَ**۔

لَمْ: تین صورتوں سے مستعمل ہے۔

المكسعة: ایک قسم کا کائنات دار پودہ۔ ج لكَاع۔

المكع: کینز اور کہا جاتا ہے بقاء کی صورت میں یا مکع اور بقاء شہ کی صورت میں یا ذوی مکع اور معرفت کی صورت میں غیر منصرف ہوگا۔ اس لئے کلمہ **المكع** سے معدول ہے۔ **المكع: غلام**۔ بے وقوف۔ گھوڑے کا بچہ۔ گدھے کا بچہ۔ چھوٹا بچہ۔ میلا پھیلا۔ گھوڑا یا وہ گھوڑا جس کے دانت گر گئے ہوں۔

اللکفة: کینز۔ گھوڑی۔ **الانكع**: مؤنث لکفاء ج لکع والمکوع والمکعج: کینز۔ **الانكع**: وہ گھوڑا جس کے دانت گر گئے ہوں۔

الملککان: کینز۔ **مؤنث ملککانة الملکک**: پستہ قد (..... والمکالک) مونث اؤنث۔

الملکاف: خوگیر۔ **لکمة (ن) لکما**: مکا مارنا۔ بھانا۔ کہا جاتا ہے **"لکم السبل عراض العجل"** سیلاب نے دامن کوہ میں نشان چھوڑا۔

لاکمة ملاحمة: ایک دوسرے کو مکا مارنا۔ **إلتکم**: بعض کا بعض کو طمانچہ مارنا۔ **تلاکما**: ایک دوسرے کو طمانچہ مارنا۔

اللکمة: گھونسا۔ مکا۔ **زجل ملکم**: بہت گھونسے مارنے والا۔ **السلكوم**: مفق مظلوم۔

خفت لکام و ملکم و ملکم: سخت کھر جو پتھر کو توڑ دے۔

الملکم: بیوند لگا یا ہوا۔ چرمی سوزہ۔ **لکن (س) لکنا و لکنة و لکونة و لکونة الرجل**: گفتگو میں اکتنا۔ بکلا تا۔ صفت الکن: **مؤنث لکنا ج لکن**۔

تلاکن فسی کلامہ: بسانے کے لئے بکلا کے بوانا۔ **اللکنة: بھس**۔ بکلا پن۔ تیار ہٹ۔

لَمْ (ن) لَمَّا الشَّيْءُ: جمع کرنا۔ اکٹھا کرنا۔ کہا جاتا ہے "لَمْ اللَّهُ شَعَتْ فَلَانٌ" یعنی اللہ تعالیٰ فلاں کے مختلف پراگندہ امور کو درست کر دیں۔ لَمْ بِفُلَانٍ: کسی کے پاس آ کر نازل ہونا۔

لَمْ فَلَانٌ: کچھ جنون لاحق ہونا۔ صفت مُلْمُومٌ۔

الْمُ: چھوٹے گناہوں کا مرتکب ہونا۔ الْغَلَامُ: بلوغ کے قریب پہنچنا۔ صفت مُلِيمٌ، الْمَتِ النَّخْلَةُ: پختی کے قریب ہونا۔ بہ مرض: مرض لاحق ہونا۔ بِالْقَوْمِ وَعَلَى الْقَوْمِ: آ کر اتر پڑنا۔ بِالْمَعْنَى: سمجھ لینا۔

بِالذَّنْبِ: گناہ کرنا۔ الشَّيْءُ: قریب ہونا۔ بِالْأَمْرِ: غور نہ کرنا۔ بِالطَّعَامِ: کھانے میں اسراف نہ کرنا اور کبھی کھانا کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے "الْمُ يَفْعَلُ كَذَا" بمعنی كَذَا يَفْعَلُ كَذَا۔

إِلْمٌ فَلَانًا: زیارت کرنا۔ بِالْقَوْمِ: آ کر اترنا۔

الْإِلْمَةُ: نظر بد۔ ہر گھبراہٹ اور خوف کی چیز کہا جاتا ہے "أَعْيُذُهُ مِنْ كُلِّ هَامِيَةٍ وَلَا مِيَةٍ" کہا جاتا ہے "هُوَ يَزُورُنَا لَمَامًا" وہ ہم سے نادمہ سے ملاقات کرتا ہے۔

الْمَمُّ: مہم۔ بے شمار جماعت۔

السَّمَمُ: تھوڑی سی دیوانگی۔ گناہ کے قریب ہونا۔ چھوٹے گناہ۔

الْمَمَّا: ایک قسم کی پھپھلی۔

الْمَمَّةُ: لَمْ کا اسم مرہ۔ سخت۔ جمع شدہ چیز۔ کہا جاتا ہے "أَصَابَتْهُ لَمَّةٌ مِنَ الْجِنِّ" یعنی اس پر جنات کا کچھ اثر پہنچا۔ الْمَمَّةُ زمانہ اور کہا جاتا ہے "لِلشَّيْطَانِ لَمَّةٌ" یعنی شیطان کے لئے قربت ہے۔

السَّمَّةُ: سانس۔ ہم سفر۔ کہا جاتا ہے "لَا تَسَافِرُوا حَتَّى تُصَيِّبُوا لَمَّةً" مت سفر کرو یہاں تک کہ ہم سفر پاؤ۔ مونس۔ (واحد و جمع)

السِّلْمَةُ: بالوں کی زلف جو کانوں کی لوسے

مجاوز ہو۔ پراگندہ ہال۔ ج لَمَمٌ وَلَمَامٌ۔ السِّلْمُ: ہر چیز میں سے سخت۔ کہا جاتا ہے "زَجُلٌ يَلْمُ" اپنے قبیلہ کے لوگوں کو جمع کرنے والا۔ "وَزَجُلٌ يَلْمُ مَعَهُ" لوگوں کے امور کی اصلاح اور عموماً ان کے ساتھ بھلائی کرنے والا مرد۔

السِّلْمَةُ: دنیاوی مصیبتوں میں سے سخت مصیبت۔ درخت خرما جو پکنے کے قریب ہو۔

السِّلْمُومُ: جس کو تھوڑی سی دیوانگی ہو۔ گول جمع کیا ہوا۔

كَيْبِيَّةٌ مَلْمُومَةٌ: گنجان فوج۔ صَخْرَةٌ مَلْمُومَةٌ: سخت گول چٹان۔

لَمَاءٌ وَلَمَاءٌ عَلَيْهِ (ف) لَمَأُ: ہاتھ ڈالنا۔ الشَّيْءُ: سب لے لینا۔ دیکھنا۔ بہ: مشتمل ہونا اور کہا جاتا ہے "مَائِلَمًا فَمَهُ بِكَلِمَةٍ" یعنی کسی قبیح بات کے بولنے کو وہ کوئی بڑی بات نہیں سمجھتا۔

الْمَاءُ: البَصْرُ عَلَى الشَّيْءِ وَبِالشَّيْءِ: چور کا کسی چیز کو چوری سے لے جانا۔ عَلِيُّ حَقْفِهِ: حق کا انکار کرنا۔ الْمَمَاتِ الدَّوَابُّ: الْمَسْكَانُ جانوروں کا جگہ کو خالی چھوڑ دینا۔

کہا جاتا ہے "كَمَّانٌ بِالْأَرْضِ مَسْرَعِي فَهَاجَبَتِ الدَّوَابُّ فَالْمَمَاتَهُ" زمین میں چراگاہ تھی جو پائے پل پڑے۔ عَلِيُّ الشَّيْءِ: مشتمل ہونا۔ بِمَا فِي الْجَفْنَةِ: اپنے لئے خاص کر لین۔ کہا جاتا ہے "مَا

أَذْرَعِي أَيْنَ الْمَسَامِينِ بِلَادِ اللَّهِ" مجھے نہیں معلوم کہ کہاں گیا۔

تَلَمَّاتٌ تَلْمُؤًا الْأَرْضُ بِهِ وَعَلَيْهِ: گھیر لینا۔ تَلَمَّاتٌ وَالتَّمَا بِمَا فِي الْجَفْنَةِ وَالتَّمَاءُ: اپنے لئے خاص کر لینا اور غالب ہونا۔

التَّمِي لُؤُنُ الرَّجُلِ: رنگ خستہ ہونا۔

السَّمْلُوءَةُ: جگہ جو لی جائے یا جہاں کوئی چیز پائی جائے۔ جال۔

لَمَّجٌ (ن) لَمَّجًا الشَّيْءُ: منہ کے اطراف سے کھانا۔ الْمَمْرَةُ: جماع کرنا کہا جاتا ہے

"مَا لَمَّجُوا أَصِفْقَهُمْ بِشَيْءٍ" انہوں نے اپنے مہمان کو ناشتہ نہیں دیا۔

تَلَمَّجَ الرَّجُلُ: غذا سے پہلے کچھ کھانا کہا جاتا ہے "زَيْتُهُ يَتَلَمَّجُ بِالطَّعَامِ" میں نے اس کو دیکھا کہ وہ کھانے کو پکھیر رہا تھا۔

الْمَلْمَاجُ وَالْمَلْمُوجُ: تھوڑی خوراک۔ کہا جاتا ہے "مَا تَلَمَّجَتْ عِنْدَهُ بِلَمَّاجٍ" یعنی میں نے اس کے پاس کچھ نہیں کچھا۔

الْمَلْمَجُ وَالْمَلْمِيجُ: بہت کھانے والا۔

کہا جاتا ہے "سَمَّجٌ لَمَّجٌ وَسَمِجٌ لَمِجٌ وَسَمِيجٌ لَمِيجٌ" یعنی بہت برا۔

الْمَلْمِجَةُ: غذا سے پہلے کا ناشتہ۔ ج لَمَّجٌ الْمَلْمِيجُ: منہ کے ارد گرد۔

رُفْحٌ مَلْمِجٌ: نرم و پکنا نیزہ۔

لَمَّعَ (ف) لَمَّعًا الْبَصْرُ: نگاہ اٹھانا۔ الرَّجُلُ الشَّيْءُ وَالشَّيْءُ الشَّيْءُ: وزیدہ نظر سے دیکھنا۔ اور اسم اللَّمَّحَةُ ہے۔ الشَّيْءُ بِالْبَصْرِ: نگاہ ڈالنا۔

لَمَّعَ (ف) لَمَّعًا وَلَمَّعَانًا وَتَلَمَّعَا النَجْمُ او الْبُرُوقُ: ستارہ یا بجلی کا چمکنا۔ صفت لَامِجٌ وَتَلْمُوجٌ وَلَمَّاحٌ لَامَّحُهُ: وزیدہ نگاہی کرنا۔

لَمَّعَ تَلْمِيعًا إِلَى الشَّيْءِ: اشارہ کرنا۔

الْمَمَّحُ إِلَى فَلَانٍ: چپختی ہوئی نظر ڈالنا۔ الشَّيْءُ: پکھلانا۔ وزیدہ نگاہ سے دیکھنا۔ الرَّجُلُ: دکھانا۔

الْمَمَّحَةُ: نظر خفیف سے دیکھنا۔

الْمَمَّحُ: بصرہ: نگاہ جانا رہنا۔

الْمَمَّحُ: بصرہ: کہا جاتا ہے "لَارِيْنَك لَمَّحًا بَاصِرًا" میں تم کو صاف و روشن معاملہ دکھاؤں گا۔ اکثر اس کا استعمال و عمید کے موقع پر ہوتا ہے۔

الْمَمَّحَةُ: جلدی کی نگاہ۔ اسم ہے لَمَّحُ کا۔

مَلَمَّحٌ: کا واحد۔ کہا جاتا ہے "زَيْتُهُ لَمَّحَةٌ الْبُرُوقُ" میں نے اس کو دیکھا اتنی دیر جتنی دیر میں ایک مرتبہ بجلی چمکتی ہے۔

الْمَلَمَّحُ: فَا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ لَوَّامٌ

عِظْفِيهِ" یعنی وہ خود پسند ہے۔ اَبِيضٌ لَمَّاحٌ : بہت زیادہ سفید۔

الصَّلَامِيحُ : مشابہ۔ چہرے کے خط و خال۔

لَحْرٌ كِي جَعٌ : کہا جاتا ہے "فَبِي فَلَانٌ لَمَّحَةٌ مِنْ أَبِيهِ" او مَلَاحِيحٌ مِنْ أَبِيهِ" فلاں میں اس کے باپ کی مشابہت ہے۔

لَمَّحَةٌ (ف) : لَمَّحًا : طمانچہ مارنا۔

لَا مَخَهِ مَلَاحِيحَةٌ وَلَمَّاحًا : ایک دوسرے کو طمانچہ مارنا۔

تَلَمَّحٌ بِكَلَامٍ فَيُحِبُّ : بری گفتگو کرنا۔

لَمَّذَةٌ (ن) : لَمَّذًا : فروتنی کرنا۔ انکاری کرنا۔

إِلَالَمْدٌ وَاللَّمْدَانُ : عاجز۔ ذلیل۔

لَمَّذٌ (ن) : لَمَّذًا : منہ کے اطراف سے کھانا (ن) میں ایک لخت ہے)

لَمَّاذًا : کلمہ مرکب ہے لام تعلیل اور ما استفہامیہ اور ذال اسم اشارہ ہے۔

لَمَّزَةٌ (ن ض) : لَمَّزًا : عیب لگانا۔ آنکھ سے اشارہ کرنا۔ ہٹانا۔ مارنا۔ لَمَّزَةُ الشَّيْبِ : بڑھا پاٹا ہر ہونا۔

لَا مَمَّزَةٌ : اشارہ کنایہ سے گفتگو کرنا۔

تَلَمَّزَةٌ : ڈھونڈنا۔ تَلَمَّزَ فِي الشَّيْرِ : دوڑنا۔

اللَّمَّازُ وَاللَّمَّزَةُ : لوگوں کے عیوب نکالنے والا۔ سامنے عیب بیان کرنے والا۔ اللَّمَّازُ : چغتل خور۔

اللَّمَّازُ : سامنے غیبت کرنے والے۔

لَمَّسَهُ (ن ض) : لَمَّسًا : چھونا۔ لَمَّسَ الشَّيْءُ : طلب کرنا۔ الشَّيْءُ : چھونے کے قابل ہونا۔ اللَّمَّزَةُ : جماع کرنا۔ زَيْدًا اِمْرَاةً : نکاح کرادینا۔ کہا جاتا ہے "لَسَهُ شُعَاعٌ يَكَادُ يَلْمَسُ الْبَصَرَ" اس کے لئے شعاع ہے جو نگاہ کو چکا چوند کر دے۔

لَا مَمَّسَةٌ : ایک دوسرے کو چھونا۔ جماع کرنا۔

الْمَمَّسُ فَلَانًا : ڈھونڈنے میں مدد کرنا۔

زَيْدًا اِمْرَاةً : نکاح کرادینا۔

تَلَمَّسَ الشَّيْءُ : بار بار طلب کرنا۔

الْتَمَّسَ الشَّيْءُ مِنْ فَلَانٍ : مانگنا۔ طلب

کرنا۔

الْلَمَّاسَةُ وَاللَّمَّاسَةُ : قریبی حاجت۔

الْلَمَّسُ : لمس : مہم جو اس خاصہ ظاہرہ میں ایک حاسہ جس سے حرارت و برودت و رطوبت بیوست معلوم ہوتی ہے۔

الْمَمَّسُ : نازک بدن عورت۔

الْمَمَّسُ : منہ بولا بیٹا جس کے حسب میں عیب ہو۔ کہا جاتا ہے كَوَاهِ لَمَّاسٌ اَوْ كَوَاهِ الْمُتَلَمَّسَةِ : یعنی مرض کی جگہ میں داغ لگا۔

الْمَمَّاسَةُ : لمس : فَبِي الْبَيْعِ : کپڑے چھو کر بیع کو واجب سمجھنا۔

الْمَمَّسُ : چھونا۔ چھونے کی جگہ۔

الْمَمَّسُوسُ : مفتح۔ کہا جاتا ہے "اِنْكَافُ الْمَمَّسُوسِ الْاِخْتِاٰءُ" پالان جس کی کچی وغیرہ ہموار کر دی گئی ہو۔

الْمَمَّسُوسَاتُ : قوتہ لامرہ کے مددکات۔

اَوَاكِلُ مَحْسُوسَاتٍ : اوائل محسوسات۔

الْمَمَّسُوسَةُ : راستہ۔

صَحِيْفَةُ الْمَمَّاسِ : بدبختی کے لئے مثل ہے۔ اس لئے کہ خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب متمس آئے تو اس کو قتل کر دو۔

لَمَّصٌ (ن) : لَمَّصًا الْعَسَلُ وَشِبْهُهُ : شہد کو انگلی کے کنارے سے لینا اور چاٹنا۔ فَلَانًا : چنگلی لینا۔ نقل اتارنا۔ عیب لگانا۔ منہ چڑانا۔

الصَّبِيُّ : پیشاب کر دینا۔

الْمَمَّصُ الشَّيْخُ : انگلی سے پکڑنے کے قابل ہونا۔ الْمَمَّصُ الْحَرَمُ : انگور کی تیل میں نرم انگور ہونا۔

الْمَمَّصُ : لمس۔ لوگوں کی غیبت کرنا۔

الْمَمَّصُ : انگور کی تیل کا محافظ۔

الْمَمَّصُوسُ : چھونا۔ قریبی۔ غیبت کرنے والا چغتل خور۔

لَمَّظَةٌ (ن) : لَمَّظًا بِالرُّمُوحِ : نیزہ مارنا۔

لَمَّظٌ فَلَانٌ : گھبرانا۔ مضطرب ہونا۔

الْتَمَّظُ : بحقیقی حق مار لینا۔

لَمَّظٌ (ن) : لَمَّظًا : کھانے پینے کے بعد زبان سے ہونٹ چاٹنا۔ کھانے کے بعد

زبان سے دانٹوں کے درمیان کا نکالنا۔۔۔۔۔

فَلَانًا مِنْ حَقَبِهِ : حق میں سے کچھ دینا۔۔۔۔۔

الْمَاءُ : زبان کے کنارے سے چکھنا۔

لَمَّظَهُ مِنْ حَقَبِهِ : حق میں سے کچھ دینا۔ کہا جاتا ہے "لَمَّظَ فَلَانًا لَمَّظًا" تھوڑا سا چکھنا۔

الْمَمَّظَةُ : ہونٹوں پر پانی ڈالنا۔ الْمَمَّظَةُ عَلَيَّ فَلَانٌ : غصہ دلانا۔ الْمَمَّظُ فَلَانًا : آہستہ نیزہ مارنا۔۔۔۔۔ البَعِيْرُ بِذَنَبِهِ : اونٹ کا ناگلوں کے درمیان دم کو دبانانا۔۔۔۔۔ الرَّجُلُ الْقَوَّسُ : کمان پر تانت باندھنا۔

تَلَمَّظَ الرَّجُلُ : کھانے کے بعد زبان نکال کر ہونٹوں کو چاٹنا۔ کھانے کو منہ میں پھرانا اور کہا جاتا ہے "تَلَمَّظَ بِذِكْرِهِ" یعنی عیب لگایا۔ تَلَمَّظَتِ الْحَيَّةُ : سانپ کا زبان نکالنا۔

الْتَمَّظُ الشَّيْءُ : جلدی سے منہ میں ڈالنا۔۔۔۔۔

الطَّمَامُ : کھانا۔۔۔۔۔ بِحَقَبِهِ : حق مار لینا۔۔۔۔۔ بِالشَّيْءِ : پلٹنا۔ بِشَفَقَتِهِ : ہونٹوں کو اس طرح ملانا کہ آواز نکلے۔

الْمَمَّظُ الْفَرَسُ : نیچے کے ہونٹ پر سفیدی والا ہونا۔

الْمَمَّظُ : تھوڑی سی چیز جو چکھی جائے کہا جاتا ہے "مَالَهُ لَمَّظًا" اس کے پاس ایسی چیز نہیں جس کو چکھے۔ "وَمَا ذُقْتُ لَمَّظًا" میں نے کچھ نہیں چکھا۔ "وَقَسْرَبَهُ لَمَّظًا" او لَمَّظًا" یعنی اس نے زبان کے کنارے سے چکھا۔

الْمَمَّظَةُ : فصاحت۔ زبان کی روانی۔

الْمَمَّظَةُ : منہ میں بقیہ کھانا۔ تھوڑی سی چیز کا بقیہ کہا جاتا ہے "مَا الدُّنْيَا اِلَّا لَمَّظَةُ اَيَّامٍ" دنیا صرف دنوں کا بقیہ ہے۔

الْمَمَّظُ : گھوڑے کے نیچے کے ہونٹ کی سفیدی۔

الْمَمَّظَةُ : گھوڑے کے نیچے کے ہونٹ کی سفیدی یا ہونٹوں کی سفیدی۔ دل کا سیاہ نقطہ تھوڑا سا گھی وغیرہ جس کو انگلی میں لے

لمیں۔

الْأَلْمَطُ مِنَ الْخَيْلِ: نیچے کے ہونٹ میں سفیدی والا گھوڑا۔

الْبِلْمَاطُ: جو کسی کی دوستی پر قائم نہ رہے۔ مَوْنُتٌ بِلْمَاطَةٍ، التِّلْمَاطَةُ: بے ہودہ بھواس کرنے والی عورت۔

مَلَامِطُ الْإِنْسَانِ: منہ اور ہونٹ کا گردا گرد۔

المُتَلَمِّطُ: تبسم کرنے کی جگہ۔

لَمَعَ (ف) لَمَعًا وَلَمَعَانًا وَلَمُوعًا وَلَمِينًا وَتِلْمَاطًا الْبُرُوقِ وَغَيْرُهُ: بجلی وغیرہ کا چمکانا۔ روشن ہونا۔

ضُرِعَ النَّاقَةُ: جھن کا دودھ اترنے کے وقت رکنیں ہونا..... فَلَانٌ بِالشَّىءِ: لے جاتا..... پیندہ او بتوہ یا بسیفہ: ہاتھ یا کپڑا تلوار سے اشارہ کرنا..... الطَّائِرُ بِجَنَاحَيْهِ: پرندہ کا بازو پھڑ پھڑانا..... فَلَانٌ الْبَابَ: دروازے سے لکھنا۔

الْمَصْعَبُ الشَّاةُ بِذَنبِهَا: بکری کا ذم اٹھانا جس سے معلوم ہو کہ گا بھن ہوئی۔ صفت

مَلْمِعةٌ وَمُلْمِيعٌ..... الْأَنْفَى: پیٹ میں بچہ کا حرکت کرنا..... فَلَانٌ بِالشَّىءِ وَعَلَيْهِ: اُچک لینا۔ چرانا۔ لے جانا۔ الْمَصْعَبُ الْبِلَادُ: خشک گھاس والا ہونا یا بہت گھاس والا ہونا۔

الْمَسْعُ إِلَى فَلَانٍ بِتَوْبِهِ: کپڑے سے اشارہ کرنا..... الْفَرَسُ وَنَحْوُهَا: حمل کی وجہ سے تھنوں کا چمک اٹھنا اور تھنوں کے سرے کا کالا ہونا..... الطَّائِرُ بِجَنَاحَيْهِ: پرندہ کا بازو کو پھڑ پھڑانا۔

لَمَعَ الشَّيْءُ: مختلف رنگوں کا ہونا۔

تَلَمَّعَ الشَّىءُ وَتَلْمَعَةٌ: اُچک لینا..... الْبُرُوقُ وَغَيْرُهُ: بجلی وغیرہ کا روشن ہونا۔ التَّمْعُ الْقَوْمُ: لے جانا۔

التَّمْعُ وَالتَّمْعُ لَوْنُهُ: رنگ جاتا رہنا اور متغیر ہونا۔

اللَّامِعُ: فَا۔ ن لَمَعٌ كَمَا جَاءَتْ فِي "مَابَالِدَارٍ لَامِعٌ" یعنی گہریں کوئی نہیں۔

اللَّامِعةُ: لامع کا مؤنث۔ بچہ کی چند یا جب تک نرم رہے۔ ن لَوَامِعُ.

الْتَمَعَةُ: گھاس کا خشک شدہ حصہ۔ لوگوں کی جماعت۔ تھوڑا سا گزارہ زندگی۔ کہا جاتا ہے "فَعَمَلُهُ لَمَعَةٌ مِنَ الْعَيْشِ" اس کے ساتھ تھوڑا سا گزارہ زندگی ہے جو اس کے لئے کفایت کر سکے..... مِنَ الْجَسَدِ: جسم کے رنگ کی چمک۔ اور بقول بعض

لَمَعَةٌ: خاص کر بدن کا سیاہ حصہ۔ اور بقول بعض ہر رنگ جو اصلی رنگ کے مخالف ہو۔ جسم کا وہ حصہ جو نہانے یا وضو کرنے میں خشک رہ جائے۔ ن لَمَعٌ وَلَمَاعٌ.

الْمَلْمَاعُ: لامع کا اسم مبالغہ۔ الْمَلْمَاعَةُ: عقاب۔ میدان جس میں سراب چمکے۔ بچہ کی چند یا جب تک نرم رہے۔

الْمَلْمُوعُ: چمکنے والا۔ تیز چمکنے والا عقاب۔ اللمع واللمعي: تیز ذہن۔ تیز فہم۔ اللمعيّة: ذکاوت۔

کہا جاتا ہے ذَهَبَتْ نَفْسُهُ لِمَاعًا: اس کی جان آہستہ آہستہ نکل۔

الْمَلْمِيعُ فِي الْخَيْلِ وَغَيْرِهَا: جسم کے رنگ کے مخالف داغ۔ ن تَلْمِيعٌ كَمَا جَاءَتْ فِي "فِيهِ تَلْمِيعٌ وَتَلْمِيعٌ" جب کہ جسم میں مختلف رنگ ہوں۔

وَلَمَعًا الطَّائِرُ: پرندہ کے دونوں بازو۔ الْمَلْمِيعُ مِنَ الْخَيْلِ وَغَيْرِهِ: جسم کے رنگ کے مخالف داغ والا۔

أَرْضٌ مَلْمِيعَةٌ وَمَلْمِيعَةٌ وَمَلْمِيعَةٌ: زمین جس میں سراب چمکے۔

خَدٌّ مَلْمِيعٌ: چمک دار رخسارہ۔

الْيَلْمِيعُ: بے بارش کی بجلی۔ سراب۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ أَكْذَبٌ مِنْ يَلْمِيعٍ" فلاں سراب سے زیادہ جھوٹا ہے اور اس سے جھوٹے کو تشبیہ دی جاتی ہے کہا جاتا ہے "أَنَّمَا هُوَ يَلْمِيعٌ" یعنی وہ جھوٹا ہے۔ ن يَلْمِيعٌ.

وَالْيَلْمِيعُ مِنَ السَّلَاحِ: چمکنے والے ہتھیار جیسے خود زرہ وغیرہ۔ ن يَلْمِيعٌ.

الْيَلْمِيعِيُّ: روئی دار قبائلی۔ (وخيل)

لَمَعَكَ (ن) لَمَعًا الْعَجِيزُ: نرم گوئدھنا۔ تَلْمِيعُ الْبَعِيرُ: اونٹ کا جڑوں کو حرکت دینے ہوئے کھانا۔

الْيَلْمَاقُ: چمکنے کی چیز۔ صرف نفی ہی میں مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے "مَاتَلْمِيعٌ بَلْمَاقٌ" یعنی کچھ نہیں چمکھا۔

الْيَلْمَاقُ وَالْيَلْمَاقُ وَالْيَلْمَاقُ: سرمہ لگایا ہوا۔

الْيَلْمَاقُ: قوی جوان۔ مردوں ہی کے لئے خاص ہے اور حرف یا زائد ہے۔

تَلْمِيعٌ بِقِيَمِهِ: کھانے کے بعد زبان کو ادھر ادھر پھراتا۔

الْيَلْمَاقُ وَالْيَلْمَاقُ: سرمہ۔ لَمِيعٌ الْخَجِرُ: پتھر کو گول گھزاتا..... الشَّىءُ: جمع کرنا۔

تَلْمِيعٌ: گول ہونا۔ جمع ہونا۔

الْيَلْمِيعُ: بہت جمع شدہ فوج۔

الْيَلْمِيعُ: جماعت۔

رَجُلٌ مَلْمِيعٌ وَجُنُلٌ مَلْمِيعٌ: گٹھے بدن کا سرد اور اونٹ۔ شعر مَلْمِيعٌ: تیل لگے ہوئے بال۔

الْمَلْمِيعَةُ مَلْمِيعٌ: کامؤنث۔ ہاتھی کی سونڈ۔

الْيَلْمِيعِيُّ: ذہین۔ تیز فہم۔ جھوٹ بچ ملانے والا۔

لَمَعَهُ (ن) لَمَعًا وَلَمُوعًا: لکھنا۔ مٹانا۔ لَمَعَتْ غَيْبَتُهُ: آکھ ملنا۔ کافی کرنا۔ لَمَعَتْ إِلَيْهِ: دیکھنا..... إِلَيْهِ بِنَصْرِهِ: دیر تک دیکھنا۔ تَلْمِيعٌ: چمکانا۔

الْيَلْمَاقُ: چمکنے کی تھوڑی سی چیز۔ کہا جاتا ہے "مَاتَلْمِيعٌ لَمَاقًا" میں نے کچھ نہیں چمکھا

"وَمَاتَ بِالْأَرْضِ لَمَاقًا" زمین میں چراگاہ نہیں۔

لَمَعُ الطَّرِيقِ: راستہ کا درمیان۔ کہا جاتا ہے "أَخَذْتُ فِي لَمَعِ الطَّرِيقِ" یعنی راستہ کے وسط میں چلا۔

الْيَلْمِيعُ: روئی دار قبائلی۔ (وخيل)

لَمَعَكَ (ن) لَمَعًا الْعَجِيزُ: نرم گوئدھنا۔ تَلْمِيعُ الْبَعِيرُ: اونٹ کا جڑوں کو حرکت دینے ہوئے کھانا۔

الْيَلْمَاقُ: چمکنے کی چیز۔ صرف نفی ہی میں مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے "مَاتَلْمِيعٌ بَلْمَاقٌ" یعنی کچھ نہیں چمکھا۔

الْيَلْمَاقُ وَالْيَلْمَاقُ وَالْيَلْمَاقُ: سرمہ لگایا ہوا۔

الْيَلْمَاقُ: قوی جوان۔ مردوں ہی کے لئے خاص ہے اور حرف یا زائد ہے۔

تَلْمِيعٌ بِقِيَمِهِ: کھانے کے بعد زبان کو ادھر ادھر پھراتا۔

الْيَلْمَاقُ وَالْيَلْمَاقُ: سرمہ۔

لَمِيعٌ الْخَجِرُ: پتھر کو گول گھزاتا..... الشَّىءُ: جمع کرنا۔

تَلْمِيعٌ: گول ہونا۔ جمع ہونا۔

الْيَلْمِيعُ: بہت جمع شدہ فوج۔

الْيَلْمِيعُ: جماعت۔

رَجُلٌ مَلْمِيعٌ وَجُنُلٌ مَلْمِيعٌ: گٹھے بدن کا سرد اور اونٹ۔ شعر مَلْمِيعٌ: تیل لگے ہوئے بال۔

الْمَلْمِيعَةُ مَلْمِيعٌ: کامؤنث۔ ہاتھی کی سونڈ۔

الْيَلْمِيعِيُّ: روئی دار قبائلی۔ (وخيل)

لَمَعَكَ (ن) لَمَعًا الْعَجِيزُ: نرم گوئدھنا۔ تَلْمِيعُ الْبَعِيرُ: اونٹ کا جڑوں کو حرکت دینے ہوئے کھانا۔

الْيَلْمَاقُ: چمکنے کی چیز۔ صرف نفی ہی میں مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے "مَاتَلْمِيعٌ بَلْمَاقٌ" یعنی کچھ نہیں چمکھا۔

الْيَلْمَاقُ وَالْيَلْمَاقُ وَالْيَلْمَاقُ: سرمہ لگایا ہوا۔

الْيَلْمَاقُ: قوی جوان۔ مردوں ہی کے لئے خاص ہے اور حرف یا زائد ہے۔

تَلْمِيعٌ بِقِيَمِهِ: کھانے کے بعد زبان کو ادھر ادھر پھراتا۔

الْيَلْمَاقُ وَالْيَلْمَاقُ: سرمہ۔

لَمِيعٌ الْخَجِرُ: پتھر کو گول گھزاتا..... الشَّىءُ: جمع کرنا۔

تَلْمِيعٌ: گول ہونا۔ جمع ہونا۔

الْيَلْمِيعُ: بہت جمع شدہ فوج۔

الْيَلْمِيعُ: جماعت۔

رَجُلٌ مَلْمِيعٌ وَجُنُلٌ مَلْمِيعٌ: گٹھے بدن کا سرد اور اونٹ۔ شعر مَلْمِيعٌ: تیل لگے ہوئے بال۔

الْمَلْمِيعَةُ مَلْمِيعٌ: کامؤنث۔ ہاتھی کی سونڈ۔

لَمَّا يَلْمُؤُا لَمْؤَا الشَّيْءِ: سب لے لینا۔

السُّنَّةُ: جماعت۔ تین سے لے کر دس تک کے ساتھی۔ ہم عمر۔ ہم شکل۔ پیروی کے لئے نمونہ۔ رج لَمَاتُ۔

لَمِي يَلْمِي لَمِيًا وَلَمِي يَلْمِي لَمِيًا: لڑکے کا سیاہ ہونٹوں والا ہونا۔ صفت مذکر الَمِي صفت مؤنث لَمِيًا۔

الْمِي الْمَاءُ: اللبُّ بَكْدًا: چور کا چپکے سے لے جانا۔ اڑا لے جانا۔

تَلَمَّتِ الْأَرْضُ بِهِ وَعَلَيْهِ: حاوی ہونا۔ مشتمل ہونا۔

الْتَمِي الْمَاءُ: لَوْنُهُ: رنگ متغیر ہونا۔ یہ اپنے لئے خاص کرنا اور غالب ہونا۔

اللَّمِي: بتکلیف اللام: ہونٹ کے اندرونی حصہ میں گندم گونی یا سیاہی۔

الْلَامِيُونُ: گھاس کی قسم سے ایک پودا جس کے پتے گھنے پھول سفید یا گلابی ہوتے ہیں بے آباد زمین میں ہوتا ہے۔

الْأَلْمِي: گندم گوں یا سیاہ ہونٹ والا زُفْعُ الْمِي: مضبوط و گندم گوں نیزہ۔ جِلُّ الْمِي:

گھنجان سایہ۔ شَجَرُ الْمِي: گھنجان سایہ دار درخت۔ غَلَامُ الْمِي: سرد بھوک والا لڑکا۔

مَوْتٌ لَمِيَاءٌ: رَجُ الْمِي: لَمِيَاءُ: کم خون والا اور بقول بعض کم گوشت والا سوڑھا۔

لَسُنٌ: مضارع کے حروف ناصب میں سے ہے لَسُنِي اور استقبال کا فائدہ دیتا ہے جیسے "لَسُنٌ أَفْعَلُ الْمَسْكُورِ مَا بَقِيَتْ" جب تک زندہ رہوں گا امور منکرہ ہرگز نہیں کروں گا اور دعا کے موقع پر بھی آتا ہے جیسے "لَسُنٌ نَسَزَ الْمَوْتُ مَلِيحًا الْفَقِيرَ" ہمیشہ فقیر کے بچار ہو۔

لَهُ (ن) لَيْحًا الشَّعْرُ: نازک و مستحسن شعر کہنا۔

لَيْهَتْ (س) لَيْهًا وَلَيْهًا وَلَيْهِيًا وَلَيْهَانًا وَلَيْهَانًا: النَّارُ: شعلہ بھڑکانا۔

لَيْهَتْ (س) لَيْهًا وَلَيْهَانًا الرَّجُلُ: پیاسا ہونا۔ صفت لَيْهَانٌ۔

لَيْهَتْ النَّارُ فَسَلَيْهَتْ وَأَلَيْهَهَا فَالْتَيْهَتْ:

آگ بھڑکانا۔ یہاں تک کہ شعلہ ہو کر بھڑک اٹھنا۔ الْتَيْهَتْ عَلَيْهِ: غضبناک ہونا۔ غصہ سے جلنا اور کہا جاتا ہے "فَلَانٌ يَلْتَيْهَبُ" او

يَلْتَيْهَبُ جُوعًا" فلاں بھوک سے بھڑک رہا ہے۔

الْتَيْهَبُ: النَّارُ: آگ بھڑکانا..... الْفَرَسُ: گھوڑے کا دوڑنے میں غبار اڑانا.....

الْبَرْقُ: بجلی کا پیاپے کوندنا۔ الْتَيْهَبُ فِی الْكَلَامِ: جلدی سے گزرتنا۔ کہا جاتا ہے "الْتَيْهَبُ يَلْأَمُرُ" اس نے اس کو کام کے لئے آکسایا۔

الْتَيْهَابُ: مِصْرٌ: پیاس۔ الْتَيْهَابَةُ: ایک قسم کی کبلی جس میں پتھر رکھ کر ہودج یا بوجھ کے ایک جانب کو جھکاتے ہیں۔

الْتَيْهَبُ: دو پہاڑوں کے درمیان کشادگی یا پہاڑ کی دراڑ۔ رَجُ الْتَيْهَابِ وَالتَيْهَابَةُ وَالتَيْهَابَةُ: مِصْرٌ: بے دھومیں کا شعلہ۔ بلند غبار۔

الْتَيْهَانُ: مِصْرٌ: گرمی کی شدت۔ گرم دن۔ پیاس۔

الْتَيْهَابَةُ: پیاس۔ خالص سفیدی۔ الْتَيْهَابُ: مِصْرٌ: آگ کی گرمی۔ الْمَلْفُوبُ: حق کے نہ سنے کی وجہ سے بھڑکنے والا۔

الْأَلْتَيْهَابُ: گھوڑے کی دوڑ کی تیزی جس سے غبار اڑے یا اس کے کھر سے آگ نکلے۔

الْمَيْلُوبُ: نہایت خوبصورت۔ الْمَيْلُوبُ: تیز دوڑنے والا غبار اڑانے والا گھوڑا۔

الْمَيْلُوبُ مِنَ الْيَبَابِ: کم سرفی والا کپڑا۔ الْالْحَسُوتُ: خداوندی۔ اور اس کی اصل "لاہ" بمعنی اللہ ہے واؤ اور تا کی زیادتی

مبادی کے لئے ہے جیسے جبروت و ملکوت میں۔ عِلْمُ الْالْحُسُوتِ: عقائد متعلقہ ذات و

صفات باری تعالیٰ کا علم۔ الْالْحُسُوتِي: عقائد متعلقہ ذات و صفات باری تعالیٰ کا عالم۔

لَيْهَتْ وَلَيْهَتْ لَيْهَانًا وَلَيْهَانًا الْكَلْبُ وَغَيْرِهِ: کتے وغیرہ کا ہانپنے میں زبان نکالنا۔

لَيْهَتْ (س) لَيْهَانًا وَلَيْهَانًا الرَّجُلُ: پیاسا ہونا۔ صفت مذکر لَيْهَانٌ صفت مؤنث لَيْهِيَةٌ۔

الْتَيْهَاتُ الْكَلْبُ: کتے کا ہانپنے میں زبان نکالنا۔

الْتَيْهَاتُ: مِصْرٌ: پیاس کی جلن۔ موت کی سختی۔ تم کہتے ہو "هُوَ يَتَيْهَسُ لَيْهَاتِ الْمَوْتِ" وہ موت کی سختی کو برداشت کر رہا ہے۔

الْتَيْهَاتَةُ: مِصْرٌ: پیاس۔ الْلَيْهَاتُ (س) لَيْهَاتُ بِالْشَيْءِ: شيفتہ ہونا۔ صفت لَيْهَجٌ وَلا يَهَجُ..... الْفَيْصِيلُ أَمَةٌ:

چوٹا..... الْفَيْصِيلُ بِأَمَةٍ: ماں کے دودھ پینے کا عادی ہونا۔ صفت لا يَهَجُ لَيْهَجُ الْقَوْمُ: کھانے سے پہلے تھوڑا سا ناشتہ کھلانا۔

الْتَيْهَجُ الرَّجُلُ: دودھ پینے کے عادی بچوں والا ہونا..... فَلَانًا بِالْشَيْءِ: فریفتہ کرانا۔ شيفتہ بنانا۔

الْفَيْصِيلُ: منہ میں ٹکڑی یا ندھناتا کہ دودھ نہ پی سکے (آخری معنی میں ہمزہ سلب کے لئے ہے)

الْتَيْهَجُ بِالْشَيْءِ: شيفتہ و فریفتہ ہونا۔ الْهَيْجُ الْهَيْجَا الشَّيْءُ: گندم ہونا۔ الْهَيْجَتْ عَيْنُهُ: اوگھ آنا۔ الْهَيْجُ السِّنُّ:

دودھ کا ناقص طریقے سے جمانا۔ الْهَيْجَةُ: زبان یا نوک زبان۔ مادری زبان۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ فَصِيحٌ الْهَيْجَةُ" و صَادِقِي الْهَيْجَةُ:

الْتَيْهَجَةُ: کھانے سے پہلے کا ناشتہ۔ الْمَيْلُوبُ: مِصْرٌ: وہ شخص جو سو رہے اور کام کرنے سے عاجز ہو۔

لَيْهَوَجُ الشَّيْءُ: ملانا..... الْآمُرُ: اوجھور کرنا۔ مستحکم نہ کرنا..... الشَّوَاءُ: نیم پخت کرنا۔

اچھی طرح سے نہ بھوننا۔ کہا جاتا ہے سِوَاةٌ
مُلْهُوَجٌ: اچھی طرح سے نہ بھننا ہوا۔ حَدِيثٌ
مُلْهُوَجٌ وَرَائِي مُلْهُوَجٌ: غیر محکم بات و
رائے۔
تَلْهُوَجُ الشَّىءُ: جلدی کرنا..... السَّلْحَمُ:
گوشت کو نیم پختہ کرنا۔ اچھی طرح سے نہ
بھوننا۔
تَلْهُجَمُ بِالشَّىءِ: شیفٹ ہونا..... السَّطْرِيُّ:
واحد ہونا۔ چلنے والوں کے پیر کا نشان
ہونا۔

اللَّهْجَمُ: کشادہ چلتا ہوا راستہ۔ بڑا پیالہ۔
لَهْدَةٌ لَهَذَا الْجَنْبِ: بوجھل کرنا۔ دبانہ۔
صفت مفعولی مُلْهُوَدٌ وَلَهْدٌ. لَهْدٌ دَابَنَةٌ:
چوپایہ کو تھکانا۔ لاغر کرنا..... الشَّىءُ: کھانا یا
چائنا..... فَلَانًا: ذلیل کر کے ہٹانا یا پستان
کی جڑ میں موٹھ سے کی جڑ میں مارنا یا
چھوڑ دینا۔

لَهْدٌ فَلَانًا: بمعنی لَهْدَةٌ اور تشدید تکثیر کے
لئے ہے۔

الْهَدْبُ: ظلم کرنا۔ الْهَدْبُ: ذلیل کرنا۔ حقیر
سمجھنا۔ الْهَدْبُ إِلَى الْأَرْضِ: بوجھل کرنا۔
زمین کی طرف جھکنا..... بِفَلَانٍ: دولانے
والوں میں سے ایک کو پکڑ لینا اور دوسرے کو
چھوڑ دینا۔
الْمُهَادُ بَجِي: بھوننا۔

الْمُهْدُ: مصل۔ ایک مرض ہے جو انسان کی
ناگ یا رانوں میں ہوتا ہے۔ صدمہ وغیرہ
کی وجہ سے اونٹ کے سینہ میں شگفتگی۔ ست
ونا کارہ مرد۔

الْمُهَيْدُ: عاجز۔ تھکا ہوا۔
الْمُهَيْدَةُ: ایک نرم قسم کا حلوا۔
السُّلْبُ: مضع ”زَجْلٌ مُلْهُدٌ“ کزور ذلیل۔
دروازوں سے دھکا دیا ہوا۔

الْمُهْدَبُ: ہمیشہ ثابت رہنے والی چیز۔
لَهْدَمَةٌ: کاٹنا۔

تَلْهَدْمَةٌ: کاٹنا۔ تَلْهَدْمُ الشَّىءِ: کھانا۔
السَّلْهَدْمُ: تیز کانٹے والا۔ تلوار۔ بھالا۔

دانت وغیرہ ج لَهْدِيمٌ وَلَهْدِيمَةٌ.
الْمُهَادِمَةُ: چوروں کی جماعت۔

لَهْزٌ (ف) لَهْزُ الشَّىءِ فَلَانًا: کسی چیز کا کسی
کے اندر ظاہر ہونا..... السَّقَوْمُ: قوم میں مل
جانا۔ لَهْزَةُ الشَّيْبِ: بڑھاپا ظاہر ہونا۔
صفت مفعولی مُلْهُوَزٌ. لَهْزَةٌ بِالرُّوحِ: سینہ
میں نیزہ مارنا۔ لَهْزٌ فَلَانًا: مکام مارنا اور
بقول بعض کان کے نیچے کی ہڈی اور گردن
پر مکام مارنا..... الْفَصِيلُ ضَرْعُ أُمِّهِ: دودھ
پیتے ہوئے سر سے تھن کو مارنا۔

لَهْزَةٌ تَلْهِيْزًا: کان کے نیچے کی ہڈی اور
گردن پر مکام مارنا۔

اللاَهْزُ: فا۔ پہاڑ اور نلہ جو راستہ کو تنگ اور
دُشوار گزار کر دے اور جب دو پہاڑ اتنے
قریب ہوں کہ ان کے درمیان کا راستہ پتلی
گلی کی مانند ہو جائے تو ان دونوں پہاڑوں
کو لاہزان کہیں گے۔

الْمُهَازُ: جھپٹھرا یا پچھل جس سے چرٹی وغیرہ کے
سوراخ کو تنگ کریں۔

الْمُهْزُ: سخت۔

الْمُهْزَةُ: کان کے نیچے جڑے میں ابھری
ہوئی ہڈی۔

الْمُهْزُ: کان کے نیچے کی ہڈی اور گردن پر
مکام مارنے والا۔

السَّمْلُهُوَزُ: مضع۔ گھسے بدن والا۔ جڑے کی
ہڈی پر داغ لگا ہوا۔

لَهْزَمَةٌ: جڑے کی ہڈی کو کاٹنا۔ لَهْزَمٌ
الشَّيْبُ خَدْيَةٌ: بڑھاپا ظاہر ہونا۔

السَّلْهَرَمَةُ: کان کے نیچے جڑے کی ابھری
ہوئی ہڈی ج لَهْزَامٌ.

لَهْسٌ (ف) لَهْسُ الشَّىءِ: چاٹنا (لحس
میں لغت ہے)..... الصَّبِيُّ ثَدْيُ أُمِّهِ: بے
چوسے ہوئے چائنا..... عَلَى الطَّعَامِ: حرم
کی وجہ سے بھوم کرنا۔

لَا هَسَ مَلَا هَسَةَ عَلَى الطَّعَامِ: کھانے پر
بھوم کرنا..... السَّقَوْمُ إِلَى الشَّىءِ: سبقت کرنا
اور بھوم کرنا۔ کہا جاتا ہے ”فَلَانٌ يَلَاهِسُ

بَنِي فَلَانٍ“ جبکہ کھانے کے وقت پہنچ
جائے۔

اللاَهْسُ: جلد باز۔ چابک دست۔ ج
لَوَاهِسُ.

الْمُهَاسَةُ وَالْمُهَاسَةُ: تھوڑی خوراک۔

الْمُهَسَةُ: چانٹنے کے قابل چیز۔ کہا جاتا ہے
”مَالِكٌ عِنْدِي لُهَسَةٌ“ تمہارے لئے

میرے پاس کچھ نہیں۔
لَهْسَمٌ مَاعَلَى الْمَائِدَةِ: دسترخوان سے
سب کچھ کھا لینا۔

السَّهَاسِمُ: وادی کی تنگ نالیاں واحد
لَهْسَمٌ.

لَهْطَةٌ (ف) لَهْطًا: جھپٹھرا مارنا۔ لَهْطٌ بِسَهْمٍ
: تیز مارنا۔ لَهْطُ السَّوْبِ: کپڑا سینا..... بِه
الْأَرْضِ: زمین پر پھینچاڑنا۔ لَهْطَتْ أُمُّهُ بِهِ:
جھٹا۔

اللاَهْطُ: فا۔ اپنے گھر کے دروازے پر
جھپٹھرا کاؤ کرنے والا اور صاف ستھرا رکھنے
والا۔

لَهْطَةٌ مِنَ الْخَيْرِ: افواہ جس کی نہ تم تصدیق
کرو نہ تکذیب۔

لَهْغٌ (س) لَهْغًا وَلَهْغَاةُ الرَّجُلِ: ہر ایک
سے بے تکلف ہونا۔ صفت لَهْغٌ وَلَهْغٌ
وَلَهْغٌ..... فِي الْكَلَامِ: خوب بڑھ بڑھ کر
باتیں کرنا۔

الْمُهَاقَاةُ: غفلت۔

الْمُهَيْعُ: کارگزاری میں تیز۔

السَّلْهَيْعَةُ: غفلت۔ سستی کا بلی خزیرو
فروخت میں سستی کرنا یہاں تک کہ نقصان
ہو جائے۔

لَهْفٌ لَهْفًا: ظلم کیا جانا۔

لَهْفٌ (س) لَهْفًا: عَلَى مَفَاتِحَ: تمکین
ہونا۔ افسوس کرنا۔ صفت لَهْفٌ وَلَهْفٌ.
لَهْفٌ فَلَانٌ نَفْسَهُ أَوْ أُمَّهُ: وانفساء وأمّیاء

والہففاء کہنا اور کہا جاتا ہے ”لَهْفٌ أُمِّهِ“
یعنی اَبُوئِهِ یہاں پر لفظ ام کو اب پر غلبہ کر دیا
گیا ہے اس لئے کہ ماں کی ماتا مشہور ہے

اور کہا جاتا ہے "لَهْفُ الْيُنْكُ تَلَهْفًا" یعنی میں نے تجھ سے فریادری کی۔

الَهْفُ: حریفی ہونا۔ نہایت خواہش مند ہونا۔

تَلَهَفَ عَلَيْهِ: غمگین ہونا۔ افسوس کرنا۔

التَهْفَةُ النَّازُ: آگ کا بجزر کنا۔ التَهْفَةُ فَلَانٌ: کسی مصیبت کے نازل ہونے پر غم سے بھڑک اٹھا۔

اللاهف: فا۔ مظلوم۔ معطر۔ فریادی۔

افسوس کرنے والا۔ مؤنث لاهف ولاهفة اور کہا جاتا ہے "هُوَ لَاهِفُ الْقَلْبِ" وہ شکستہ دل ہے۔

اللاهفة لاهف کامؤنث۔ ج لاهفات وتواهف۔

اللاهف: مص۔ یا تَهْفُ فَلَانٌ کہہ ہے جس سے ماقات پر افسوس کیا جاتا ہے یعنی فلاں

پر کس قدر افسوس ہے اور کہا جاتا ہے "یا تَهْفِي عَلَيَّ يَا تَهْفِي وَيَالْهَفَا وَيَالْهَفِ أَرْجِسِي وَسَمَى عَلَيَّ وَيَا لَهْفَا" یعنی تیرے اوپر افسوس ہے۔

السَّهْفَانُ: افسوس کرنے والا۔ غمزدہ۔ مؤنث لَهْفِي ج لَهْفَانِي وَهَفِي.

السَّهْفَةُ لَهْفٌ: کا اسم مرثہ اور فوت شدہ کے افسوس کے لئے کہا جاتا ہے "یا لَهْفَةً وَيَا لَهْفَةً وَيَا لَهْفَةً وَيَا لَهْفِيَا"

السَّهْفُ: مؤنث۔ لہا۔ افسوس کرنے والا۔ مؤنث السَّهْفَةُ.

السَّهْفِي: معطر۔ افسوس کرنے والا۔ رَجُلٌ لَهْفٌ الْقَلْبِ: سوختہ دل۔ ج لَهْفِ السَّهْفُوفِ: غمگین جس کا مال ضائع ہو گیا ہو یا کوئی قریب فوت ہو گیا ہو۔ فریاد کرنے والا مظلوم رَجُلٌ مَلْهُوفٌ الْقَلْبِ: سوختہ دل مرد۔

لَهْفٌ (ف) وَلَهْفٌ (س) تَهْفًا وَتَهْفًا الشَّيْءُ: بہت مفید ہونا۔

تَلَهَّفْتُ الشَّيْءُ: بہت سفید ہونا۔ الرُّجُلُ: زیادہ گنگو کرنا۔

السَّهْفُ: سفید یا سفید تیل۔ کہا جاتا ہے: "السَّهْفُ لَهْفٌ أَوْ لَهْفَانٌ" بہت سفید گائے۔

السَّهْفُ: سفید تیل۔ کہا جاتا ہے: "السَّهْفُ لَهْفٌ أَوْ لَهْفَانٌ" بہت سفید گائے۔

السَّهْفُ: بہت بخشش والا۔ بڑا دیا لو۔ بڑا

السَّهْفُ: سفید یا سفید تیل۔ کہا جاتا ہے: "السَّهْفُ لَهْفٌ أَوْ لَهْفَانٌ" بہت سفید گائے۔

السَّهْفُ وَاللَّهْفُ: سفید تیل۔ سفید۔ مؤنث لَهْفَةً وَتَهْفَةً. ج لَهْفَاتٌ وَتَهْفَاتٌ کہا جاتا ہے "أَبْيَضَ لَهْفٌ وَتَهْفٌ" بہت سفید۔

مُتَهْفِقٌ اللَّوْنُ: سفید رنگ والا۔ لَهْلَهْ لَهْلَهْ: النَّسَاجُ الثَّوْبُ: باریک جینا (ہلہل کا مقلوب ہے)

تَلَهْلَهْ الثَّوْبُ: باریک بنا ہوا ہونا۔ الْكَلَاءُ: تھوڑی سی گھاس کے درپے ہونا۔

السَّهْلَةُ مِنَ النَّيَابِ أَوْ الْكَلَامِ أَوْ الشَّعْرِ: روی کپڑا یا گنگو یا شعر۔

السَّهْلَةُ: بد صورت۔ بَلْدٌ لَهْلَهُ: کشادہ مقام جہاں سراب بہت ہوں۔ ج لَهْلَهُ (.....) وَالسَّهْلَةُ: کشادہ زمین۔

السَّهْلَةُ: کسی چیز سے رجوع کرنا۔ باریک بناوٹ۔

لَهْمٌ (س) لَهْمًا وَتَهْمًا الشَّيْءُ: ایک ہی مرتبہ میں لگانا۔ الماءُ: گھونٹ لینا۔

أَلْهَمَهُ الشَّيْءُ: نکلوانا۔ أَلْهَمَ اللَّهُ فَلَانًا خَيْرًا: وحی کرنا۔ سکلوانا۔ توفیق دینا۔ دل میں ڈالنا۔

تَلَهَّمَهُ وَتَهَمَّهُ الشَّيْءُ: ایک ہی دفعہ میں لگانا۔ ہڑپ کرنا۔ (التَهَمَهُ ذِي بُولَا جَاتَا) ہے)

أَلْهَمَ لَوْنُهُ: رنگ متغیر ہونا۔ اسْتَلْهَمَ اللَّهُ خَيْرًا: اللہ سے خیر کے الہام کی دعا کرنا۔ کہا جاتا ہے "اسْتَلْهَمَ السَّهْفَةَ الرَّشَادَ" اللہ سے رشاد ہدایت کے الہام کی دعا کرتا ہوں۔

الْهَامُ: بڑا فکر۔ اللہم: عمر رسیدہ۔ ج لَهْمُومٌ رَجُلٌ لَهْمٌ وَتَهْمٌ: کھاؤ۔ پیو۔

السَّهْمَةُ مِنَ السُّوْبِقِ: ایک مرتبہ پھانکنے کی مقدار ستو۔

السَّهْمُ: بہت بخشش والا۔ بڑا دیا لو۔ بڑا

السَّهْمُ: بہت بخشش والا۔ بڑا دیا لو۔ بڑا

السَّهْمُ: بہت بخشش والا۔ بڑا دیا لو۔ بڑا

السَّهْمُ: بہت بخشش والا۔ بڑا دیا لو۔ بڑا

سمندر۔ کھاؤ۔ سبقت کرنے والا گھوڑا یا آدمی۔ رَجُلٌ لَهْمٌ: مرد روشن رائے بخشش کرنے والا۔ کفایت کرنے والا۔ ج لَهْمُونٌ (عورتوں کے وصف میں واقع نہیں ہوتا) رَجُلٌ لَهْمٌ: کھاؤ مرد۔

السَّهْمُ وَامُّ السَّهْمِ: موت۔ بخار۔ مصیبت۔ اللہم: کشادہ دیک۔

إِلْهَامٌ: مص۔ اللہ کا انسان کے دل میں ایسا داعیہ پیدا کرنا جو کسی فعل کے کرنے یا چھوڑنے پر آمادہ کرے۔

السَّهْمُ وَالسَّهْمُ مِنَ الرِّجَالِ: کھاؤ۔ پیو۔

لَهْمَسٌ مَا عَلَى الْمَائِدَةِ: دسترخوان سے سب کچھ کھالینا۔

السَّهْمُومُ: بڑا لشکر۔ حتی آدمی۔ عمدہ گھوڑا۔ بے شمار۔ بہت برسنے والا بادل۔ بہت دودھ والی اونٹنی۔ ج لَهْمَايْمٌ وَتَهْمَايْمٌ النَّاسُ: حتی لوگ۔

السَّهْمِيْمُ: سبقت کرنے والا گھوڑا یا آدمی۔ لَهْمٌ الْقَوْمِ وَالْقَوْمُ: ناشتہ کھلانا۔ سفر سے واپسی پر تھکا دینا۔

أَلْهَمَهُ: مسافر کو سفر سے واپسی پر تھکا دینا۔ تَلَهَّمَهُ الرَّجُلُ: ناشتہ کھلانا۔

السَّهْمَةُ: تھکا جو مسافر سفر سے واپسی پر دے۔ ناشتہ۔ تھکا جو مسافر کو سفر سے واپسی پر دیا جائے۔ ج لَهْمٌ.

لَهْمًا يَلْهَمُو لَهْمًا الرَّجُلُ: کھینا۔ سبہ: فریفت ہونا (..... لَهْمًا وَتَهْمًا) الْمَرْأَةُ إِلَى حَدِيثِ الرَّجُلِ: مانوس ہونا۔ پسند کرنا (..... لَهْمًا وَتَهْمًا) عَنِ الشَّيْءِ: غافل ہونا۔ ذکر چھوڑنا۔ بھولنا۔

يَلْهِي يَلْهِي لَهَا يَكْذِبُ: محبت کرنا۔ عَنَهُ: تسلی پانا۔ غافل ہونا۔ ذکر چھوڑنا۔ روگردانی کرنا۔ کہا جاتا ہے "إِلَهْ لَه كَمَا يَلْهِي لَكَ" تم بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کر دو جیسا وہ تمہارے ساتھ کرتا ہے۔

لَهْمًا تَلْهِيَةً عَنِي كَذِبًا: غافل کرنا۔

لَهْمًا تَلْهِيَةً عَنِي كَذِبًا: غافل کرنا۔

لَهْمًا تَلْهِيَةً عَنِي كَذِبًا: غافل کرنا۔

لَهْمًا تَلْهِيَةً عَنِي كَذِبًا: غافل کرنا۔

لَهْمًا تَلْهِيَةً عَنِي كَذِبًا: غافل کرنا۔

لَهْمًا تَلْهِيَةً عَنِي كَذِبًا: غافل کرنا۔

لَهْمًا تَلْهِيَةً عَنِي كَذِبًا: غافل کرنا۔

بگذا: مشغول کرتا۔

لَاخَاه مَلَاخَاهُ: قریب ہونا۔ جھگڑا کرتا۔

لَاخَى الشَّيْءُ: نزدیک ہونا..... الْغُلَامُ:

دودھ چھوئے کے قریب ہونا۔

أَهَاءُ الْهَاءِ، اللَّعْبُ عَنْ كَذَا: غافل کرتا۔

فَلَانٌ الشَّيْءُ: عاجزی سے چھوڑ دینا.....

الرَّحَى وَفِي الرَّحَى وَاللَّرْحَى: چکی میں

کول ڈالنا۔ الْهَيْ الرَّجُلُ: بہتر اور کثیر عطیہ

دینا۔

تَلَهَّى تَلَهَّى بَكْدًا: کسی چیز پر توجہ یا اعراض

سے دل بہلانا..... بِالشَّيْءِ: مشغول ہونا۔

تَلَاهَى تَلَاهَى بِالْمَلَاهَى: کھیل کود میں

مشغول ہونا..... الْقَوْمُ: یا ہم کھیلنا۔

إِنْتَهَى الرَّجُلُ بِالشَّيْءِ: کھیلنا..... عَنْهُ بَعِيْرُهُ:

مشغول ہونا۔

إِسْتَلَهَى اسْتَلَهَى: صَاحِبَهُ: ساتھی کا

انتظار کرتا۔ نَحْرَانَا..... الشَّيْءُ: زیادہ لینا۔

تَنَمَّنَا۔

السُّهَاءُ: مقدار۔ کہا جاتا ہے "هَمُّ لَهَاءُ

جَانِبِهِ" وہ لوگ سو (۱۰۰) کی مقدار میں۔

السُّهُو: کھیل کود۔ وہ چیز جس سے انسان

لذت حاصل کرے۔ عورت جس سے کھیل

کود کیا جائے۔ ڈھول۔ فرزند۔

السُّهَاءُ: طلق کا کوئی لَهَوَاتٌ وَلَهِيَّاتٌ

وَلَهِيٌّ وَلَهِيٌّ وَلَهَا وَلَهَاءٌ وَلَهَاءٌ.

السُّهُوَةُ: لہا کا اسم مرہ۔ عورت جس سے

کھیل کود کیا جائے۔

السُّهُوَةُ وَالسُّهُوَةُ: پیتے ہوئے چکی میں ایک

مرتبہ چٹنی مقدار میں غلہ ڈالیں۔ عطیہ۔ بہتر

و کثیر عطیہ۔ لپ بھر مال۔ ج لہی۔

السُّنِيَّةُ: عطیہ یا بہتر و کثیر عطیہ۔ کہا جاتا ہے

"فَلَانٌ لَهَوٌ عَنِ السُّخْبِرِ" فلاں بھلائی سے

بہت غافل ہے۔

السُّهُوِيُّ: لہاسے کی طرف منسوب۔

وَالْحَرْفَانِ اللَّهْوِيَّانِ: ق وک۔

الْأَلْهُوَةُ وَالْأَلْهِيَّةُ وَالنَّهْيَةُ: جس سے کھیل

کود کیا جائے۔

السُّهْلِيُّ: کھیل کود۔ کھیل کود کا زمانہ۔ کھیل

کود کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "هَذَا مَلْهِي الْقَوْمِ"

یعنی یہ ان کی اقامت کی جگہ ہے۔ "وَهَذَا

مَلْهِي الْأَنْبَاسِي" یہ پایہ دیگ دان کی جگہ

ہے۔

السُّهْلِيُّ: کھیل کود کا آلہ۔ ج مَلَاهُ. آلاَثُ

السُّلَاهِي: آلات موسیقی۔

لَهْوُجٌ: نادہ لہ ج میں گزر چکا۔

لَهْوُوقٌ لَهْوُوقَةٌ وَتَلَهْوُوقُ الرَّجُلُ: جو اپنے

اندازہ ہوا سے ظاہر کرنا..... فِي الْعَمَلِ

وَالكَلَامِ: ترک مبالغہ کرتا۔

رَجُلٌ لَهْوُوقٌ: ذیک مارنے والا۔ جو اپنے

اندازہ ہوا سے ظاہر کرنے والا۔

لَوْ: یہ حرف چھوٹے سے مستعمل ہے۔

(۱) زمانہ ماضی میں شرط کے لئے جیسے "لَوْ

جَاءَ نَبِي لَانْحَرَمْتُهُ" اگر وہ میرے پاس آتا تو

میں اس کا اکرام کرتا۔ یہ تین باتوں کا فائدہ

دیتا ہے۔ ایک شرط۔ دوسرے شرط کو ماضی

کے ساتھ مقید کرنا۔ تیسرے امتناع اور اسی

وجہ سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ حرف

امتناع لا امتناع ہے یعنی شرط کے مستغنی:

ہونے کی وجہ سے جزاہ مستغنی: ہوتی ہے

مناطق نے اس کو ادوات اتصال قرار دیا

ہے جیسے "لَوْ كَانَ زَيْدٌ حَجْرًا لَمَا جَمَدًا"

۔

(۲) زمانہ مستقبل میں شرط کے لئے مگر یہ

جازم نہیں جیسے "وَلَوْ تَلَقَّيْتُ أَضْدَاءَ نَا بَعْدَ

مَوْتِنَا" الخ۔ اور اس قسم میں اور پہلی قسم میں

فرق یہ ہے کہ شرط جب مستقبل ہو تو لَوْ سَوَانٌ

کے معنی میں ہوتا ہے اور جب ماضی ہو تو

حرف امتناع ہوتا ہے اور جب اس کے بعد

فعل مضارع واقع ہو تو ماضی کے معنی میں ہو

جاتا ہے جیسے لَوْ تَقَوْمٌ أَقَوْمٌ بِمَعْنَى لَوْ قَمْتٌ

قَمْتٌ۔

(۳) یہ کہ حرف مصدری ہو بمنزلہ أَنْ کے مگر

یہ نصب نہیں دیتا اور اکثر وُدٌ يَسُوذُ کے بعد

واقع ہوتا ہے جیسے "وَدُّوا لَوْ تَأْتِيهِمْ" وہ تمنا

کرتے ہیں کہ تم ان کے پاس آؤ" يَسُوذُ

أَحَدُهُمْ لَوْ نَعْمَتٌ" ان میں ایک عمر دینے

جانے کی تمنا کرتا ہے۔

(۴) یہ کہ تمنا کے لئے ہو۔ اس کا جواب

منسوب اور فاعل کے ساتھ ہوتا ہے جیسے "لَوْ

تَأْتِيَنِي فَتُحَدِّثْنِي" تمنا ہے کہ تم میرے پاس

آتے اور مجھ سے باتیں کرتے۔

(۵) عرض کے لئے مانند الّا کے اس کا

جواب بھی فاعل سے ہوتا ہے اور منسوب ہوتا

ہے جیسے "لَوْ تَنْزِلُ عَلَيْنَا فَتُصِيبُ خَيْرًا"

اگر تم ہمارے پاس اترتے تو بھلائی کو

پہنچتے۔

(۶) تقلیل کے لئے جیسے "تَصَدَّقُوا وَلَوْ

بِظَلْفٍ مُخْرَقٍ" صدقہ کرو اگرچہ چلا ہوا

کھری کیوں نہ ہو۔

لَا بَ تَلْوُوبٌ لَوْ بَا وَ لَوْ بَا وَ لَوْ بَا نَا الرَّجُلُ او

الْبَعْضُ: مرد یا اونٹ کا پیا سا ہونا۔ پانی کے

اروگرد بغیر اس تک پہنچے ہوئے گھومنا۔ اسم

الْوُوبِ وَاللُّوْبُ وَاللُّوْبُ وَاللُّوْبُ

لَوْ يَه تَلْوِيْنَا. مَلَاب (ایک قسم کی خوشبو) ملنا

(دیکھئے مَلَاب)

أَلَابِ الْإِنَاءِ السُّرْجُلُ: پیا سے اونٹوں والا

ہونا۔

الْوَابُ: فاعل لَوْ وُوبٌ وَ لَوْ بَا کہا جاتا

ہے "إِسْلَ لَوْ بَا او نَسْخَلُ لَوْ بَا وَ لَوْ اب" پیا سے پانی سے دور۔

الْوَابُ: مصل لُعَاب.

السُّوْبَاءُ وَاللُّوْبِيَاءُ وَاللُّوْبِيَا: لوبیا۔ لوبیا کی

پھلی (دخیل)

السُّوْبِيَّةُ: جماعت جو دوسری جماعت کے

ساتھ رہے مگر شریک مشورہ نہ کی جائے۔

سُكَاخٌ سوختہ ج لُوب.

اللُّوبُ: گوشت کا ٹکڑا جو دیگ میں پھرے۔

شہد کی مصلی۔

الْوَابِيَّةُ: سُكَاخٌ سوختہ۔ ج لَابَاتٌ وَ لَابٌ.

الْوَابِيَّةُ: کالے اونٹ جمع شدہ۔

السُّلَابُ: ایک قسم کی خوشبو جو زعفران کے

السَّلَاةُ: مركز۔ وہ جگہ جس پر کوئی چیز گھومے۔

السَّلِيَّةُ: مونا پے کی وجہ سے ست۔ دینمۃ لُونَاءُ: لگا تار بارش جو گھاس کو کھیر دے۔

لَاخٌ يَلْوُجُ لَوْجًا الشَّيْءُ: ظاہر ہونا۔

الزُّبْقُ: بجلی کا چمکانا۔ السَّخْمُ: ستارہ کا ٹھکانا۔

الْيَهُ: دزدیدہ نگاہ سے دیکھنا۔ الشَّيْءُ: دیکھنا۔ کہا جاتا ہے "لَاخَهُ بَصِيرَهُ لَوْحَةً" جبکہ دیکھے اور پھر پوشیدہ ہو جائے۔

العَطَشُ او السَّفَرُ فَلَانًا: سفیر کرنا۔ رنگ بدل دینا۔ لَوْحًا وَلَوْحًا وَلَوْحًا: لَوْحًا تَلْوِيحًا: دور سے اشارہ کرنا۔ لَوْحٌ بَسِيْفُهُ: تلوار چمکانا۔ بَسُوْبُهُ: کپڑا بلند کر کے ہلانا۔ کہا جاتا ہے "لَوْحٌ لِّلْكَلْبِ بَسْرٌ غَيْفٌ قَبِيْعَةٌ" اس نے کتے کو روٹی بلا کر دکھائی وہ پیچھے ہولیا۔ السَّفَرُ والعَطَشُ فَلَانًا: چہرہ سفیر کر دینا۔ الشَّيْبُ فَلَانًا: سفید بالوں والا کر دینا۔ فَلَانًا بِالْعَصَا وَالسَّيْفِ وَالسُّوْطِ وَالسُّنْفِلِ: اٹھانا اور مارنا۔

الشَّيْءُ بِالنَّارِ: آگ سے گرم کرنا۔

الْأَخُ الْإِخَّةُ الشَّيْءُ: ظاہر ہونا۔ الزُّبْقُ: بجلی کا چمکانا۔ السَّخْمُ: ستارے کا روشن ہونا۔ بَسِيْفُهُ او فَوْبُهُ: تلوار یا کپڑے سے اشارہ کرنا۔ بِحَقِّقِهِ: حق مار لینا۔

فَلَانًا: ہلاک کرنا۔ جُنَهُ: خوف کرنا۔ پریزیز کرنا۔ مِّنَ السُّقُولِ: شرمانا۔ عَلِي الشَّيْءِ: اعتماد کرنا۔

تَلْوُجٌ: ظاہر ہونا۔ واضح ہونا۔

إِنْتِاحُ الْبَيْتَاخَا: پیاسا ہونا۔

إِسْتِلَاحٌ فِي الْأَمْرِ: استِخْلَاحٌ: غور کرنا۔

إِسْتِلَاحٌ: پیاسا ہونا۔

السِّيَاحُ وَاللِّيَاحُ: صبح۔ جنگلی تیل۔ سفید اور تاکید کے موقع پر بولا جاتا ہے "أَبْيَضُ لِيَاحٍ او لِيَاحٍ" خالص سفید۔

تَلَوْتُ تَلْوًا فَوْبَهُ بِالطَّيْنِ: کپڑے کا کچھڑ میں سرنا۔ زَيْدٌ بِعَسْمَرٍ: پناہ لینا اور نفع کی امید سے محبت میں رہنا۔

إِنْقَاتُ الْبَيْتَاخَا عَلَيْهِ الْأَمْرُ: پیچیدہ ہونا۔

بَسْرٌ دَائِمٌ: لپٹنا۔ فِئْسِي الْعَقَلِ: دیر کرنا۔ فِئْسِي كَلَامِهِ: حجت سے عاجز رہنا۔

بِالسَّدَمِ: خون سے تھرنا۔ آلودہ ہونا۔

الْبَيْعِيْرُ: اونٹ کا مونا اور قوی ہونا۔ فَلَانًا عَنِ كَذَا: روکنا۔

اللَّائِثُ: فَا۔ ثِيْرٌ نَبَاتٌ لَائِثٌ: آپس میں لپٹے ہوئے پودے۔

اللُّوْثُ: پلٹھن۔ السُّوْاْئَةُ: پلٹھن۔ جماعت۔ وہ شخص جو ہر چیز میں آلودہ ہو جائے۔

السُّوْثُ: مہس۔ قوت۔ برائی۔ زخم۔ کینہ کے مطالبات۔ کمزور ہوت۔

اللُّوْثُ: ڈھیل ڈھال۔ اللِّيْثُ: گنجان نباتات۔

اللُّوْثَةُ لَائِثٌ: اکاسمرۃ۔ بے وقوفی۔

السُّوْثَةُ: ڈھیل ڈھال۔ تاخیر۔ بے وقوفی۔ زبان میں رکاوٹ۔ اثر جنون۔ کہا جاتا ہے "بہ لَوْثَةٌ" اس کے ساتھ جنون کا اثر ہے۔ گوشت و چربی کی زیادتی اور کہا جاتا ہے "زَجَلٌ ذُو لَوْثَةٍ" ست و کمزور مرد۔ کہا جاتا ہے نَبَاتٌ لَيْثٌ: گنجان پودہ۔

السُّوْثَةُ: جماعت۔ کہا جاتا ہے "إِنَّ الْمَجْلِسَ لِيَجْمَعُ لَوْثَةً مِنَ النَّاسِ" مجلس مختلف قسم کی جماعتوں کو جمع کر لیتی ہے۔

الْأَلْوُثُ: ڈھیلا ڈھیلا۔ قوی۔ ست۔ موٹی زبان والا۔ کمزور عقل والا۔ مَوْتٌ لَوْثَاءٌ: ج لوث۔

السَّلَاةُ وَالْمَجْلُوْثُ: سردار شریف جس کی پناہ لی جائے۔ ج السَّلَاوِثُ وَالْمَلَاوِثَةُ وَالْمَلَاوِثُ: کہا جاتا ہے "ہم ملاوٹ" یعنی وہ اشراف ہیں۔

وَأِنَّهُ لِنِعْمِ الْمَلَائِكَةِ لِلْمُضْفَيْنِ: وہ مہمانوں کے لئے بہترین جائے پناہ ہے۔

مشابہ ہے۔

الْمُلْوُوبُ: مفع۔ بیچ دار ہونا۔

اللُّوْلُبُ: بیچ۔ بیچ دار کیل۔ ج لُوْلُبٍ۔ اللُّوْلُبِيُّ: جو لُوْلُبُ: کی حیثیت پر ہو۔

السُّلُوْبُ: سرمہ کی سلائی۔

لَاثٌ يَسْلُوْتُ لَوْنًا الرَّجُلُ: بغیر پوچھے ہوئے خبر دینا۔ السَّخِيْرُ: خبر کو چھپانا۔

فَلَانًا: حق گھٹانا۔

الْاَثُ: زمانہ جاہلیت کے ایک بت کا نام۔ لَآثٌ: حرف نفی ہے لیس کا عمل کرتا ہے مگر اس کے بعد وہ معمول میں سے ایک ہی ذکر کیا جاتا ہے اور عموماً مرفوع محذوف ہوتا ہے جیسے "وَلَاثٌ جِيْنٌ مِّنْصَاصٌ" تقدیر عبارت کی یوں ہے "وَلَاثٌ الْجِيْنُ جِيْنٌ مِّنْصَاصٌ"۔

لَاثٌ يَلْوُوثُ لَوْنًا: العَضَامَةُ عَلِي زَايِبَهُ: سر پر عام۔ لپٹنا۔ الضَّبَابُ بِالْحَيْجَلِ: کبیرے کے پھاڑ کو ڈھاٹنا۔ بَفْلَانٌ: پناہ لینا۔

لَاثٌ بِه النَّاسُ: ارد گرد جمع ہونا۔ ذَاوَةٌ: ہمیشہ گھر میں رہنا۔ الشَّيْءُ: منہ میں چپانا۔

فِي الْأَمْرِ: دیر کرنا۔ عَنِ الْحَاجَةِ: سستی کرنا۔ فَوْبَهُ بِالطَّيْنِ: کپڑے کو کچھڑ میں تھیرنا۔ الشَّيْءُ: بگا کر ملانا۔ لَآثٌ فَلَانٌ: گھومنا۔ کہا جاتا ہے "لَاثٌ لَوْنًا مِّنَ الْكَلَامِ" بات کو اس نے چپا چپا کے کہا صاف نہیں بیان کیا۔ "وَمَالَاتٌ فَلَانٌ أَنْ غَلَبَ فَلَانًا" وہ غالب آنے سے نہیں رکا۔

لَوْتُ يَلْوُوثُ لَوْنًا فِي الْأَمْرِ: تاخیر کرنا۔

لَوْتُ تَلْوِيْنًا الشَّيْءُ: بھگونا۔ السَّمَاءُ: گدلا کرنا۔ بِيَسَابَةِ بِالطَّيْنِ: کپڑوں کو کچھڑ میں تھیرنا۔

الْبَيْزُ بِالْقَبْتِ: بھوسہ کو چارے میں ملانا۔

فَلَانًا عَنِ كَذَا: روکنا۔ الْأَمْرُ: مشتبہ کرنا۔

لَاثٌ إِثْمَةٌ مَالَةٌ بَفْلَانٌ: دودیت کرنا۔

الْوُوثُ الْوَانَا: الْأَرْضُ: خشک گھاس میں تر آکانا۔

اللَّيْحَةُ لَانِح : كما مَوْتٌ - ظا هر ہونے والی - ج لَوَانِح کہا جاتا ہے "نظَرْتُ إِلَى لَوَانِحِهِ وَالْوَأْجِدُ" میں نے اس کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھا - اللَّيْحَةُ : رَجْرَجٌ - جس میں حساب درج کیا جائے - (مولدہ) اللُّوْحُ : سختی - ہر چوڑی چیز کڑی ہو یا ہڈی یا لوہاج السَّوَّاحِ : لَوُحُ السَّجْدِ : ہاتھ اور ٹانگ کی ہڈی کے علاوہ ہڈی - یا ہر وہ ہڈی جو چوڑی ہو - ج السَّوَّاحِ جُ الْأَوْنِجِ . الْأَوْنِجُ السَّلَاحُ : چمکدار ہتھیار - اللُّوْحُ : بیاس - فضاء آسمانی - اِبِلٌ لَوُحِي : بیاسے اونٹ - التَّلَوْنِيحَاتُ : کتاب کے حواشی نوٹ - الْمُتَنَاحُ : دھوپ یا سفر کی وجہ سے متغیر رنگ والا - الجِسلُوحُ : لبا - د بلا - جلد دلی ہونے والی عورت - بڑی اور چوڑی چنگلی ہڈی والا - أَلُوْحِسُ كِي تَانِكُ كُو بَارِ كِ شَكَارِ كَرْنِ كِ كَلِّ بَانِدِه دِيَا جَائِ - الجِسلُوحُ وَالْمِسلُوحُ وَالْمِليْنِحُ : جلدی بیاسا ہونے والا - ج مَلَاوْنِجِ كِهَا جَاتَا هِ "اِبِلٌ مَلَاوْنِجٌ" جلدی بیاسے ہونے والے اونٹ - قِدْحٌ مَلُوحٌ : آگ سے متغیر شدہ تیر - لِأَنَّهُ يَلُوحُهُ لَوُحًا : ملانا - اِلْتِاخُ الْبِيَاخَا : ملنا الْعَجِيْنُ : گندھے ہوئے آٹے میں خمیر اٹھنا - الْبِلُوَاخَةُ وَالْبِيَاخَةُ : مکھن دودھ سے ملا ہوا - لَوْدٌ يَلُودُ لَوْدًا : سرکش ہونا - نافرمان ہونا - الْأَوْدُ : سرکش - نافرمان - جو عدل کی طرف مائل نہ ہو - موٹی گردن - ج الْأَوَادِ . لِأَدَّ يَلُودُ لَوْدًا وَ لَوَادًا وَ لَوَادًا وَ لَوَادًا وَ لَوَادًا بِالْحَبْلِ : پہاڑ میں چھپنا - پناہ گیر ہونا بِالْقَوْمِ : پناہ میں آنا الطَّرِيقُ بِالْأَدَارِ : راستہ کا گھر سے متصل ہونا - لِأَوْدِ لَوَادًا وَمَلَاوْنَةَ بَفْلَانٍ : پناہ میں

آنا عَنْهُ : فریب دینا فَلَانًا : مخالفت کرنا - الْقَوْمُ : عداوت کرنا الْقَوْمُ : ایک دوسرے کی پناہ لینا بِالْقَوْمِ : گرد گھومنا - لِأَدَّ اِلْتِاخَةَ بِالْحَبْلِ وَ بِالْقَوْمِ : بمعنی لِأَدَّ الطَّرِيقُ بِالْأَدَارِ : احاطہ کرنا اور متصل ہونا - لِأَدَّ اِلْتِاخَةَ بِالطَّرِيقِ : گھر کا راستہ سے متصل ہونا - السَّوْدُ : مہم - پہاڑ کا کنارہ - کہا جاتا ہے اِعْتَصَمَ بِلَوْدِ الْحَبْلِ وَ بِالْوَادِہِ : اس نے پہاڑ کے کنارے پناہ لی - وادی کا موڑ - کہا جاتا ہے "نَزَلُوا بِلَوْدِ الْوَادِي" وہ لوگ وادی کے گوشے میں اترے - کہا جاتا ہے "فَلَانٌ يَطُوفُ فِي الْوَادِ لِبَلَادٍ" فلاں ملک کے اطراف میں پھرتا ہے - "وَهُوَ لَوْدَةٌ" وہ اس سے قریب ہے - ج الْوَادِ . لَوْدَانُ الشَّيْ : جانب - اَللَّوْدَانِيَّةُ : فریب دی - اللَادَةُ : سرخ ریشمی کپڑا - ج لِأَدَّ . التَّلَوَادُ : اسم ہے بمعنی مَلَاوْنَةُ كِهَا جَاتَا هِ "أَنَّهُمْ تَلَوَادٌ" یعنی بعض بعض کی پناہ لیتا ہے - لِسَوَادِ الشَّيْ : قریب قریب - کہا جاتا ہے "لَيْسَ مِنَ الدَّرَاهِمِ مَاءٌ أَوْ لَوَادُهَا" میرے پاس سو یا اس کے قریب قریب درہم ہیں - المَلَادُ : قلعہ - جائے پناہ - المَلَاوْدُ : ازیں - واحد مَلُودٌ . المِلُودَةُ : جائے پناہ - السُّورُ : گاڑھا دودھ - جو بیوی اور پتیر کے درمیان ہو - جس کو اہل شام قَسْرِيْنَةُ کہتے ہیں - لِأَدَّ يَلُودُ لَوْدًا اِلْيَهِ : پناہ لینا مِنْهُ : رہائی پانا الشَّيْ : کھانا - لَوْرٌ تَلَوِيْرًا : التَّمْرُ : چھوڑے میں بادام بھرنا - اللُّوزُ : بادام - واحد لَوْرَةٌ . السُّوْرَةُ : حلق میں کوئے کے قریب کا گوشت اور وہ دو ہوتے ہیں - السُّوْرَتَانُ : سرین

کے دو گڑھے - کہا جاتا ہے "أَنَّهُ لَعَوْرٌ لَوْرٌ" یعنی وہ محتاج ہے - لَوْرٌ تَالِخٌ ہے - اللُّوْرِيُّ : بادام کی شکل کا - الصَّلَاوُ : جائے پناہ - أَرْضٌ مَلَاوْرَةٌ : بادام والی سرزمین - المُلُورُ : بادام سے بھری ہوئی گھجور - وَجْهَةٌ مَلُورٌ : حسین و لیلح چہرہ - المُلُورِيْنَجُ : ایک قسم کا حلوا - لوزینہ - لِأَسْ يَلُوسُ لَوْسًا : المَحَلَاوَاتُ وَ عَجِيْرَهَا : کھانے وغیرہ کے لئے مٹھائی وغیرہ ڈھونڈنا - صفت لَائِسٌ وَ لَوْسٌ وَ لَوَّاسٌ وَ اَلْوَسُ الشَّيْ : چکھنا الشَّيْ فِي فِجِهٍ : منہ میں پھرانا اور کہا جاتا ہے "هُوَ لَا يَلُوسُ كَذَا" وہ اتنا نہیں دیتا - المَلُوسَةُ : قلعہ - اللُّوسُ جَمْعُ لَائِسٍ كِي (جیسے نازل و نُوْلٌ) کھانا - کہا جاتا ہے "سَادَقْتُ لَوْسًا أَوْ لَوْسًا" یعنی میں نے نہیں چکھا - لِأَصْ يَلُوصُ لَوْصًا : دروازے کی جھری سے دیکھنا عَنْهُ : الگ ہونا - پُنا - لَوْصٌ تَلَوِيْصًا : خالص شہد کھانا - لِأَوْصٌ مَلَاوْصَةٌ : دروازے کی جھری سے دیکھنا اِلْيَهِ : اس طرح دیکھنا گویا کسی ارادہ سے فریب دے رہا ہے فَلَاتَا عَنْ كَذَا : فریب دینا الشَّجَرَةُ : درخت کو کھلاڑی سے کانٹے کے ارادہ سے دائیں بائیں دیکھنا - الْأَصَةُ اِلْتِاخَةُ عَلَيِ الشَّيْ : گھمنا - چکر دینا - ارادہ کرنا - کہا جاتا ہے "مَا أَصْتُ أَنْ أَخَذْتَهُ شَيْئًا" میں نے اس سے کچھ لینے کا ارادہ نہیں کیا - اَلْبِيضُ الرَّجُلُ : کپکپی زدہ ہونا - تَلَوَّصٌ تَلَوَّصًا : پلٹنا - لوٹ پوٹ ہونا - اللُّوْصُ : مہم - کان یا سینہ کا درد - اللُّوَاصُ : شہد خالص - اللُّوْصَةُ : پیچھا کا درد - المَلَاوِصُ : چالپوسی کرنے والا - فریبی -

لاَط يَلُوطُ لُوطًا الْخَوْضُ: حوض کوئی سے
لیپنا..... الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: چکانا..... الْإِنْسَانُ
بَارًا: دھکارنا۔ کہا جاتا ہے "لَاَطُ الشَّيْءُ
بِقَلْبِي" چیز میرے دل میں جرمگی..... فَلَانًا
بِعَيْنٍ: نظر بدگانا..... فَلَانًا بِسَهْمٍ: تیر مارنا
..... فَلَانًا بِفُلَانٍ: لائق کرنا۔ نسبت کرنا.....
الشَّيْءُ: چھپانا..... (لَاَطًا) فِي الْأَمْرِ: اصرار
کرنا..... (لُوطًا وَلُوطًا وَلَاوُطَ وَتَلَوُطًا)
اغلام کرنا۔

لُوطُهُ تَلَوِيظًا بِالطَّيِّبِ: خوشبو سے لت پت
کرنا۔

الْبَسَاطَةُ الْبَسَاطَةُ وَاسْتِلَاطُهُ اسْتِلَاطَةٌ: منہ
بولا بیٹا بنانا۔

الْبَسَاطُ حَوْضًا: اپنے لئے حوض میں مٹی
لگانا۔ کہا جاتا ہے "الْبَسَاطُ بِقَلْبِي" یعنی
میرے دل میں جم گیا۔

الْبِيضُ: سود۔ بیاج۔

الْمَلُوطُ: موص۔ چادر۔ پھرتیلا مرد۔ سود۔
چپکے والی چیز۔ کہا جاتا ہے "إِنِّي لَا جِدْلُهُ
فِي قَلْبِي لُوطًا" میں اپنے دل میں اس کی
بیروت محبت کو محسوس کرتا ہوں۔

الْأَلُوطُ: اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے "هُوَ
الرُّوْطُ بِقَلْبِي" وہ میرے دل کے ساتھ زیادہ
چپا ہے۔

الْمُسْتَلَاطُ: منہ بولا بیٹا۔

لَاظُهُ يَلُوظُهُ لُوطًا: بمعنی لافظہ۔

الْبَسَاطَةُ الْحَاجَةُ: دشوار ہونا۔

الْمَلُوطُ: چچن یا کوڑا۔

لَاغَهُ يَلُوغُهُ لُوغًا: الْحَبُّ: بیمار کر دینا۔

لَاغَتِ الشَّمْسُ فَلَانًا: رنگ بدل دینا
(..... لُوعًا وَ لُوعًا) الرَّجُلُ: بزدل یا
لاچی اور بد اخلاق ہونا۔

لَاغَ يَلُوعُ وَيَلَاغُ لُوعَةً: گھبرانا۔ تنگدل
ہوتا۔ یا مریض ہونا۔ غم یا عشق سے دل
جلتا۔

لُوعَةٌ تَلُويْنَا: الْحَبُّ: بیمار کر دینا۔ عوام
کہتے ہیں "لُوعَ فَلَانًا" یعنی عذاب دیا۔

الْأَعْتَهُ الْإِعَاةَ الشَّمْسُ: رنگ بدل دینا۔
الْقَدِيُّ: پستان کے سرے کا کالا اور تنغیر
ہوتا۔

النَّاعُ الْبِيَاغَا قَلْبُهُ: دل کا غم یا عشق سے جل
اٹھنا۔ کہا جاتا ہے "زَجَلُ هَالِعٍ لَانِعٍ وَهَالِعٌ
وَلَانِعٌ" یعنی بزدل اور خائف اور مؤثرت کے
لئے "هَاعَةٌ لَاعَةٌ"۔

الْوَالِعُ: خائف یا بزدل۔ مریض۔ رج لائون
ولاعَةٌ وَالْوَالِعُ.

السَّلَاعَةُ الْوَالِعُ: کاموث۔ تیز خاطر۔ رج
لائعات.

اللُّوْعَةُ لَاعٌ: کامرہ۔ غم یا عشق و محبت کی
جلن۔ کہا جاتا ہے "فِي قَلْبِهِ لُوعَةٌ" اس کے
دل میں سوزش ہے۔ پستان کے سرے کی
سیاہی۔

لَاَقَ يَلُوقُ لُوقًا الطَّعَامُ: کھانا یا چبانا۔
لَاَقَتِ الذَّابَّةُ الْكَلْبًا: چوپایہ کا سوکھی گھاس
کھانا۔

الْوُوقُ: موص..... مِنْ الْكَلْبِ أَوْ الطَّعَامِ:
غیر مرغوب گھاس یا کھانا۔

الْوُوقُ: ایک قسم کا پودہ ہے جس کی جڑیں
جنگلی بیاز کی طرح لگتا ہے۔ واحد لُوقَةٌ.
الْوُوقِيُّ: ایک قسم کی نباتات ہے جو پرانے
اسہال کے لئے مجرب ہے۔

الْوُوقُ: خشک گھاس۔ (اصل اس کی لُوقُوفُ:
ہے)

الْوُوقَةُ: پھلتھن۔

السُّوُوقُ: شترچی ساز۔ کہا جاتا ہے کھلا

مَلُوقُ: بارش سے تر گھاس۔

لَاَقَهُ يَلُوقُهُ لُوقًا: نرم کرنا۔ لاق عَيْنُهُ: آنکھ
پر مارنا..... السُّوُوقَةُ: دوات میں روشنائی
درست کرنا کہا جاتا ہے "هُوَ لَا يَلُوقُ
عِنْدَكَ" وہ تمہارے پاس نہیں ٹھہرتا ہے۔

لُوقٌ تَلُوقًا: الطَّعَامُ: گھی یا مکھن سے تیار
کرنا۔

الْوُوقُ: نرم کی ہوئی چیز۔

الْوُوقُ: بے وقوفی۔

السُّوُوقَةُ لَاقٌ: کامرہ۔ وقت۔ کہا جاتا
ہے "ذَهَبَ فَلَانٌ لُوقًا" فلاں اسی وقت
گیا۔ کہا جاتا ہے مَا ذَاقَ لُوقًا: اس نے کچھ
نہیں چکھا۔

الْوُوقَةُ وَالْوُوقَةُ: مکھن۔
الْوُوقُ: بے وقوف۔

الْمِلُوقُ: دو افروش کا چھچھ۔ (مولدۃ)

لَاكٌ يَلُوكُ لُوكًا الْقَمَّةُ: لقمہ کو آہستہ

چبانا اور منہ میں پھرانا..... الْقَرَسُ لِلْحَجَامِ:

چبانا اور کائنا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ يَلُوكُ

أَعْرَاضَ النَّاسِ" وہ لوگوں کی عیب گیری کرتا

ہے وَالْكِنِي إِلَى فَلَانٍ: میرا پیغام فلاں کو

پہنچا دو۔ (اصل الْكِنِي ہے)

السُّوُوكُ: چبانے کی چیز۔ کہا جاتا ہے

"مَا ذَاقَ لُوقًا"

الْوُوقَةُ: سختی و تکلیف۔ کہا جاتا ہے وَقَعَ فِي

الْوُوقَةِ: وہ سختی میں پڑا۔

لُوقًا: حرف تفضیل و تہدیم ہے۔ تین

طریقوں سے مستعمل ہے۔

(۱) دو جملوں پر داخل ہوتا ہے جس میں پہلا

جملہ اسمیہ اور دوسرا فعلیہ ہوتا ہے اور اول

کے وجود سے انشاء ثانی پر دلالت کرتا ہے

جیسے "لُوقًا لُوقًا لُوقًا" اگر زید

موجود نہ ہوتا تو میں تیرا اکرام کرتا۔ اور

جب لُوقًا کے بعد ضمیر واقع ہو تو ضمیر مرفوع

ہونا چاہئے جیسے "لُوقًا لُوقًا لُوقًا"

مُؤَبِّنِينَ"۔

اور لُوقًا لُوقًا لُوقًا لُوقًا: بہت کم سنا گیا

ہے۔

(۲) اور تفضیل اور عرض کے لئے اس

صورت میں مضارع کے ساتھ خاص ہے

چاہے حقیقتاً ہو یا تاویلاً جیسے "لُوقًا

تَسْتَفْهِرُونَ اللَّهَ" کیوں تم اللہ سے استفہار

نہیں کرتے؟ اور "لُوقًا أَخْرَجْتَنِي إِلَى أَجْلِ

قَرِيبٍ"۔

(۳) تو بیخ اور تہدیم کے لئے۔ اس صورت

میں ماضی کے ساتھ خاص ہے جیسے "لُوقًا

جساءٌ وَاَعْلِيهِ بِأَرْبَعَةِ شَهْدَاءٍ“ اور اصل لؤلؤء: کی لؤلؤ ہے۔ جولاء کے ساتھ مرکب ہے اور اس کے لئے جواب کا ہونا ضروری ہے اور اس کے جواب میں اکثر لام آتا ہے مگر جبکہ منفی بلیغ ہو تو لام کا داخل ہونا مستحب ہے۔ اللؤلؤب: دیکھو مادہ ”لؤب“۔

لؤلؤی لؤلؤة: پشت پھیرنا۔ کہا جاتا ہے ”لؤلؤا مُدْبِرًا“۔

لأمة يَلْوُمُهُ لَوْمًا وَمَلَامًا وَمَلَامَةٌ فِي كَذَا وَعَلْسِي كَذَا: ملامت کرنا۔ صفت فاعلی۔ لائم: و صفت مفعول مَلْوُومٌ وَمَلِيْمٌ۔ ليم به: کاٹنا جاتا۔

لَوْمًا تَلْوِيْنًا: ملامت کرنا۔ تشدید مبالغہ کے لئے ہے۔ لَوْمٌ لَامًا: حرف لام لکھنا۔

لَاؤْمُهُ مَلَاؤْمَةٌ وَلِوَامًا: ایک دوسرے کو ملامت کرنا۔

الْأَمَةُ الْإِمَامَةُ: ملامت کرنا۔ صفت فاعلی مُلِيمٌ: اور صفت مفعول مَلَامٌ اور اسم السَّلَامَةُ: ج مَلَاؤِمٌ، اَلْأَمُ السَّرْجُلُ: مستحق ملامت فعل کرنا۔

تَلْوَمٌ تَلْوَمًا فِي الْأَمْرِ: انتظار کرنا۔ دیر کرنا۔ تَلَاؤَمًا: بعض کا بعض کو ملامت کرنا۔

النَّامُ الْبَيِّنَاتَا: ملامت قبول کرنا۔ اِسْتَلَامٌ اِسْتِلَامًا: مستحق ملامت ہونا۔

..... اَلْسِي ضَيْفُهُ: اچھا سلوک نہ کرنا۔ اَلْيَهْمُ: ایسا فعل کرنا جس پر لوگ ملامت کریں۔

اللائم: فاعل لَوْمٌ وَلَوْمٌ وَلِيْمٌ۔ اللائمة: لائم: کا مؤنث۔ ملامت۔ کہا جاتا ہے ”اِسْتَحَقَّ اللَّائِمَةُ“ مستحق ملامت ہے۔ ج لؤلؤائم۔

اللائم: خوف۔ وجود۔ نزدیکی۔ ہر چیز کا سخت۔ حرف لام۔ ج لامات۔

اللؤم: عصب۔ ملامت۔ خوف۔ اللؤم: لوم: کا تخفیف شدہ۔

اللؤم: بہت ملامت۔ اللؤمی واللؤماء: ملامت۔

اللائمة: خوف۔ کہا جاتا ہے ”جساءٌ بِالْأَمَةِ“ قابل ملامت فعل کیا۔

اللمؤمة: لائم: کا اسم مرہ۔ کہا جاتا ہے ”جساءٌ بِالسُّؤْمَةِ“ ایسا کام کرنا جس پر ملامت کی جائے۔

اللمؤمة: جس کو لوگ ملامت کریں۔ انتظار۔ کہا جاتا ہے ”بِسِي فِيهِ لَوْمَةٌ“ مجھے اس کا انتظار ہے۔

اللمؤمة: جو لوگوں کو بہت ملامت کرے۔ السؤام واللؤامة: بہت ملامت کرنے والا۔ ”السفس اللؤامة“ وہ نفس جو کسی غلطی کے ارتکاب پر ملامت کرے۔

اللامی: لام: کی جانب منسوب۔ لائمة العجم: طغرائی کا قصیدہ لامیہ۔ لائمة العرَب: شطری کا قصیدہ لامیہ۔

کہا جاتا ہے ”اَنْتَ الْاَوْمُ مِنْ فُلَانٍ“ تو فلاں سے زیادہ قابل ملامت ہے۔

السؤوم: فاعل فعل کی وجہ سے قابل ملامت حاجت پوری کرنے کا منتظر۔

لَوْنٌ تَلْوِنَا الشئ: رنگین کرنا۔ البسؤ: چٹکل کا اثر ظاہر ہونا۔ کہا جاتا ہے ”لَوْنٌ الشئ فِيهِ“ بالوں میں سفیدی ظاہر ہوئی۔

تَلْوِنُ الشئ: رنگین ہونا۔ مختلف رنگ کا ہونا۔ الرؤجل: ملون مزاج ہونا۔

اَلْوِنُ الْوِنَانَا: بچھن تَلْوِنٌ۔ السؤون: جو ایک چیز کو دوسرے سے ممتاز کر دے۔ رنگ۔ ج ألوان۔

السؤون: قسم۔ کہا جاتا ہے ”عَسَدَةُ لَوْنٌ مِنْ الْبَيْتَابِ“ اس کے پاس کپڑے کی ایک قسم ہے۔ ”وَتَسْأَوْلُ كَذَا وَكَذَا لَوْنًا مِنْ الطعمام“ اس نے فلاں فلاں قسم کے کھانے کھائے اور کہا جاتا ہے ”اَنْسِي بِاَلْوَانٍ مِنْ اَلْحَدِيثِ“ اس نے مختلف قسم کی باتیں کیں۔

التلؤین: عصب۔ تفکد اور تلذذ کے لئے مختلف قسم کے کھانے پیش کرنا۔ کلام میں ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کو اختیار کرنا۔

السؤلؤون: فاعل جو ایک حالت و کیفیت پر قائم

نہ رہے۔

لأة يَلْوُهُ لَوْمًا وَلَوْهَانًا وَتَلْوَةُ الشَّرَابِ: چکنا۔

اللائمة: سانپ۔ لؤه السراب: لؤوهته ولؤوهته: سراب کی چمک۔

لؤاه (وَأَوِيَةُ الْعَيْنِ وَاللَّامِ) يَلْوِيهِ لَيْثًا وَلَيْثًا وَلَيْثَانًا وَلَيْثَانًا ذَيْبَةً وَبَذْيَبَةً: قرص میں نال منول کرنا۔..... فُلَاتَا بِحَقِيْبِهِ: حق کا انکار کرنا۔

لؤوى يَلْوَى لؤى القُدْحِ او الرَّمْلِ: تیریا ریت کا میڑھا ہونا۔..... النَّبْثُ: نباتات کا خشک ہونا۔..... الصِّغْدَةُ او الظُّهْرُ: معدہ کا درد والا ہونا۔ پیٹھ کا خمیدہ ہونا۔ صفت مذکر لؤى: صفت مؤنث لؤوية۔ لؤيث لؤى: الحية: سانپ کا کنڈلی مارنا۔

لأوْتٌ مَلَاؤِةٌ وَلِوَاءٌ. الحية الحية: سانپ کا سانپ پر پلٹنا۔

ألؤى إلواء القسؤم: ریت کے موز پر پہنچنا۔..... الرؤجل: خشک کھیتی والا ہونا۔

دوسرے کے لئے جو کھانا چھپا کر رکھا ہو اس کو کھانا۔ امیر کے جھنڈے کو سینا۔..... الأيسر له لؤاء: امیر کا کسی کیلئے جھنڈا نصب کرنا۔

النقل: سبزی کا مرجھانا۔..... فُلَانٌ: بہت تمنا کرنا۔..... بيدة او بشوبه: ہاتھ یا کپڑے سے اشارہ کرنا۔..... به: لے جانا۔..... بحقى فُلَانٌ: حق کا انکار کرنا۔..... بما فى الأناء: اپنے لئے خاص کرنا۔..... بهم الذهر: ہلاک کرنا۔..... بکلامه: کلام میں تبدیلی کرنا۔

النبت: نباتات کا خشک ہونا۔..... فُلَانٌ اللؤاء: بلند کرنا اور نصب کرنا۔

تَلْوَى تَلْوِيْنَا الشئ: مزنا۔..... السؤرفى فى السحاب: بجلی کا بادل میں پراگندہ چکنا۔

تَلَاؤُوا تِلَاؤِيْنَا عِلْسِي فُلَانٌ: جمع ہونا۔ و تَلَاؤِيْنَا: ایک دوسرے پر پلٹنا۔

إلؤى التلؤاء القُدْحِ او الرَّمْلِ: تیریا ریت کا میڑھا ہونا۔..... عِلْسِيهِ الأهر: دشوار ہونا۔..... الشئ: مزنا۔..... لؤوية: دوسرے کے

لؤلؤا مُدْبِرًا“۔

لؤلؤا مُدْبِرًا“۔

لؤلؤا مُدْبِرًا“۔

لؤلؤا مُدْبِرًا“۔

لؤلؤا مُدْبِرًا“۔

لؤلؤا مُدْبِرًا“۔

لئے کھانا چھپا کر رکھنا۔

اِسْتَلَوِي بِهِمُ الدَّهْرُ: ہلاک کرنا۔

الْوُؤُونُ وَاللَّوْؤُونُ: الدِّينِ کی جمع۔

اللاؤوی: اسم فاعل۔ ج لاؤوون و لوؤاة۔

الساؤوی: لاؤوی بن یعقوب بن اسحاق بن

ابراہیم علیہما السلام کی جانب منسوب۔

سَفَرُ اللّٰوِیِّیْنِ: موجودہ ہائیل کی کتابوں

میں سے ایک کتاب۔

السِّوَاءُ: فوج کا ایک عہدہ جو جزل کے

مساوی ہوتا ہے۔ جماعت کا قائد۔ شہروں

میں سے ایک حصہ کا نام۔ خاص گنتی شدہ

لشکر۔ اسی لئے امیر اللواء: کا لفظ فوجی عہد

کے لئے بولا جاتا ہے۔

اللواء: جھنڈا اور یہ رایت سے چھوٹا ہوتا ہے

اور کہا جاتا ہے لوؤاء اس وجہ سے کہتے ہیں کہ

بڑے ہونے کی وجہ سے موڑ کے رکھا جاتا

ہے اور ضرورت ہی کے وقت کھولا جاتا

ہے۔ ج الویوة و الویات کہا جاتا ہے بَعَثُوا

بالسواء واللواء۔

اللوی: مہس۔ معدہ کا درد۔ پشت کی کچی۔

اللوی: بمعنی اللاتی جمع الاتی۔

اللوی: باطل باتیں۔

السوی: ریت کا موڑ۔ یا ریت کی تنگ جگہ

ج الوؤاء و الویوة۔

الألواء: وادی کے موڑ۔ مملکت کے

اطراف۔

اللواء: ایک پرندہ۔

اللیاء مؤنث الوی: پانی سے ڈور جگہ۔

اللاویاء: ایک قسم کی گھاس داغ کرنے کا

آلہ۔

اللؤوة: بد صورتی۔

السؤوة واللیة: عموماً جس کی دھونی دی جائے۔

اللیة: قرابتیں۔

اللائ: زمانہ جاہلیت کے ایک بت کا نام۔

اللوی: خشک گھاس۔ مرجھائی ہوئی گھاس۔

اللوی: ایک درخت کا نام۔

السویة: دوسرے کے لئے چھپا کر رکھا ہوا

کھانا ج لوؤایا۔

الألوی: سخت جھگڑا۔ سخت جگجگو۔ تہا۔

گوشہ نشین۔ مؤنث لیاء۔ الألوی بمن

الطریق: دور کا غیر معروف راستہ۔ نیز حاکم

سیک۔ ظلتنا مڑی ہوئی دم۔ ج لئی بالضم

اور قیاس کے مطابق لئی کسرہ یا ہ کی مناسبت

سے ہونا چاہئے۔ کہا جاتا ہے زَمَاءُ اللّٰئِ

بِأَحْوَى الْوِیِّ خداس کو بڑی مصیبت میں

بتلا کرے۔

لوی (وَاوِیةُ العَیْنِ بانیہ اللام) یلوی لیا

ولویا ولویا الخجل: رسی بنا۔ موڑنا.....

السغلام: لڑکے کا بیس سال کا ہونا..... عین

الأمس: سستی کرنا۔ کہا جاتا ہے "لویت

الیالی کفہ علی القضا" یعنی بوڑھا بنا دیا

(..... لیا ولینا) امرہ عینی: پوشیدہ رکھنا

..... سیرة: چھپانا..... الحزن قلبہ: پھیر دینا

..... غلبہ: مڑنا یا انتظار کرنا۔ کہا جاتا ہے

"مر لا یلوی علی أحد" وہ اس حال میں

گزر کر نہ تو ظہرتا ہے نہ انتظار کرتا ہے۔

زاسہ او یزایہ: پھیرنا یا اعراض کرنا۔

لویت الناقة بذنبها: حرکت دینا..... فلاتا

علسی فلان: فضیلت دینا اور کہا جاتا ہے

"فلان لا یلوی ظہرہ" جبکہ شدت بیان

کرنی مقصود ہو۔

لوی تلویة. غلبہ الأمر: دشا کرنا۔ کہا جاتا

ہے "لوی اغشاق الرجال" یعنی ان کے

اوپر غالب آ گیا۔

الوی الواء. برابہ: پھیرنا۔ الوت الناقة

بذنبها: دم بلانا۔

تلوی تلویا و التوی الواء الخجل: رسی کا

بنا جانا۔

تلوی الحیة: کندلی مارنا۔

التوی الأمر: دشا ہونا..... عین الأمر:

سستی کرنا۔

السلاوی: مڑے ہوئے راستے۔ کہا جاتا

ہے "سلکوا الملاذی".

ملتوی الوادی: وادی کا موڑ۔

اللیة لوی: کا اسم مرہ۔ ج لوی.

الیات الیاء. الناقة: اونٹنی کا ست چلنا۔

لائہ بلیة لیئا. عن کذا: روکنا۔ پھیرنا۔

لائت زبدا حقه: جن کا گھٹانا۔

الائة الائمة. عن کذا: روکنا۔ پھیرنا۔ کہا

جاتا ہے "مما لائتہ من عملہ شیئا" اس نے

اس کے عمل میں کچھ کم نہیں کیا۔

اللیت: کنارہ گردن۔ مثنوی لیئان ج

الیات.

لائت: دیکھو۔ ل آت۔

لیت: حرف تمنی ہے۔ تمحیل پر اکثر آتا ہے

جیسے لیت الشبَاب یغوذ: کاش جوانی لوٹی

اور ممکن پر کم جیسے لیت العلیل یصح: کاش

بیمار تندرست ہوتا اور یہ اسم کو نصب اور خبر کو

رفع دیتا ہے اور لیت کے ساتھ متصل ہوتا

ہے۔ مگر پھر بھی اسماء ہی پر داخل ہوتا ہے اسی

وجہ سے لیسا قام زبدا کہا جائز نہیں اور اس

وقت عمل و ابطال عمل دونوں جائز ہیں عمل تو

اختصاص بالاسماء کی وجہ سے اور ابطال عمل

دوسرے حروف مشبہ بالفعل پر حمل کی وجہ

سے اور جب لیت کے ساتھ متکلم متصل ہو تو

لیتی و لیتی دونوں کہا جاتا ہے۔ مگر لیتی

نادر ہے۔

لیت تلینا و لیت تلینا الرجل:

شیر جیسا ہونا۔

لائیة ملائیة: شیر جیسا معاملہ کرنا۔ شیری

صفت میں فخر کرنا۔

استلیت: شیر جیسا ہونا۔

اللائت: شیر۔

اللیت: شیر۔ ایک قسم کی کڑی۔ قوت و

شدت۔ زبان آور لیغ۔ ج لیسوت

و ملیة.

اللیة: شیرنی۔ مضبوط اونٹنی۔ ج لیئات.

اللائت: بہادر۔ مؤنث لیئا. ج لیٹ اور کہا

جاتا ہے "هو الیٹ أصحابہ" وہ اپنے

ساتھیوں میں زیادہ قوی اور مضبوط ہے۔

الملیت: مضبوط قوی۔

المَلِيحُ: مونا۔ خوار و ذلیل۔

الْيَادُ: تھوڑی چیز۔ کہا جاتا ہے "فَمَا تَرَكْتُ لَهُ يَادًا" میں نے اس کے لئے کچھ نہیں چھوڑا۔

لَا زَيْلُ لِيْزًا الرَّجُلُ: پناہ لینا۔

المَلِيحُ: جائے پناہ۔

لَيْسَ يَلِيْسُ لَيْسًا الرَّجُلُ: دلیر و بہادر ہونا۔

عَنْهُ: غافل ہونا۔

لَيْسَ: مختلف طریقے سے مستعمل ہے۔

(۱) لشی حال کے لئے اور قرینہ سے حال کے علاوہ کی بھی لشی کرتا ہے جیسے "لَيْسَ حَلَقُ اللّٰهِ مِثْلَهُ" اور یہ ایسا فعل ہے جس کی گردان نہیں آتی۔ اس کا وزن فعل ہے مگر میں کلمہ کو تخفیفاً ساکن کر دیا گیا ہے اور یہ اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے جیسے "لَيْسَ زَيْدٌ قَائِمًا" اور اس کی خبر کا اس کے اوپر مقدم کرنا جائز نہیں اور کبھی اس کے ذریعے سے استثناء کیا جاتا ہے جیسے "جَاءَ نَبِي الْقَوْمِ لَيْسَ زَيْدًا" اس صورت میں اسم ضمیر مستتر ہے اور جو اسم کے بعد میں واقع ہے وہ جاہر خبریت کے منصوب ہے۔

(۲) یہ کہ خبر مع الا کے ہو جیسے لَيْسَ الطَّيْبُ اِلَّا الْمِسْكُ (۳) یہ کہ جملہ فعلیہ پر داخل ہو یا مبتدا و خبر پر کہ دونوں مرفوع ہوں اور اس صورت میں اسم ضمیر شان ہوگی اور جو جملہ کے بعد میں واقع ہوگا وہ خبر ہوگا اور محلاً منصوب ہوگا۔ جیسے لَيْسَ يَشْوِمُ زَيْدٌ. لَيْسَ زَيْدٌ قَائِمٌ اور لَيْسَ كِي خَيْرٌ مِّنْ تَاكِيْدِي كِي لِنِي اِدَا ضَلُّ كَرْتِي هِي اِس صَوْرْتِي مِيں خَبْر لَفْظًا مَجْرُور اور محلاً منصوب ہوتی ہے۔ جیسے لَيْسَ اللّٰهُ بِظَالِمٍ.

تَلَيْسَ الرَّجُلُ: صاحب قوت ہونا۔

تَلَيْسَ الرَّجُلُ تَلَيْسًا: نیک خو ہونا۔

عَنْهُ: چشم پوشی کرنا۔

الْاَلَيْسُ: نڈر۔ بہادر۔ اونٹ کہ جو کچھ لاو دیا جائے اٹھالے۔ خانہ نشین۔ شیر۔ نیک

خو۔ مَوْنٌ لَيْسَاءٌ ج لَيْسٌ کہا جاتا ہے

"قَوْمٌ لَيْسٌ وَلَوْسٌ" یعنی سخت قوم "وَابِلٌ لَيْسٌ عَلٰى الْحَوْضِ" حوض سے نہ جدا ہونے والا اونٹ۔

المَلَايِسُ: ست۔ دیر کرنے والا۔

لَا ضَ يَلِيْضُ لَيْسًا: کیسہ ہونا..... الشئُ: اکھڑنے کے لئے ہلانا۔

الْاَضَ الْاَضَةُ الشئُ: اکھڑنے کے لئے ہلانا۔

لَا ضَ يَلِيْضُ لَيْسًا: چٹنا..... الشئُ بِقَلْبِهِ: محبوب ہونا۔ دل سے چپکانا..... فَلَا تَسَا بِلَانٍ: لاحق کرنا اللّٰهُ فَلَانًا: لعنت کرنا۔ کہا جاتا ہے "مَسَا يَلِيْضُ بِهِ النِّعَمُ" یعنی نعمت اس کے لائق نہیں۔

لَيْطٌ بِهِ تَلِيْطًا: چپکانا۔

الْاَلِطَةُ الْاَلِطَةُ: چپکانا۔

الْبِلَاطُ: سچ۔ پانچاندہ۔ سود۔ رنگ۔

الْبَلِيْطُ: مہس۔ رنگ۔

الْبَلِيْطُ: رنگ۔ کھال۔ عادت۔ ہر چیز کا چھلکا۔ کہا جاتا ہے "اَتَيْتُهُ وَبَلِيْطُ الشَّمْسِ لَمْ يَبْغُشْ" یعنی میں اس کے پاس دن کے ابتدائی حصہ میں قبل اس کے کہ آفتاب کی سرخی زائل ہو آ یا۔

الْبَلِيْطَةُ: ترکل ہانس وغیرہ کا چھلکا جو چھار ہتا ہے۔ کمان۔ نیزے کا ڈنڈا۔ ج لِيْطُ وَبِلَاطُ وَالْبَاطُ.

لَاغٌ يَلِيْغُ لَيْغَانًا: زچ ہونا۔ بزدل ہونا۔ ٹھہرانا..... لَوَعَةٌ وَلَيْغَةٌ الْجُوعُ فَلَانًا: بھوک کا سوزش میں مبتلا کرنا۔

الْاَغُ: زچ ہونا۔ ٹھگ دل ہونا۔

رِيْحٌ لِيَاغٌ: تیز یا گرم ہوا۔

الْبَلِيْغَةُ: لاغ کا اسم مرہ۔ لَيْغَةُ الْجُوعِ: بھوک کی سوزش۔

لَاغَةٌ يَلِيْغُهُ لَيْغًا. الشئُ: چھلانا۔ لاغُ الشئُ: لینے کے لئے چھلانا۔

تَلِيْغٌ: بیوقوف ظاہر کرنا۔

الْبِلَاغَةُ: بیوقوف۔ کہا جاتا ہے زَجَلٌ لِبَاغَةٌ:

بیوقوف مرد۔

الْبَلِيْغُ: کمال بیوقوفی۔ کہا جاتا ہے طَعَامٌ سَبِيْغٌ لَيْغٌ: خوشگوار کھانا۔

الْاَلِيْغُ: صاف گفتگو نہ کر سکنے والا۔ بیوقوف

مَوْنٌ لَيْغَاءٌ ج لَيْغٌ اور اسی سے مثل ہے "ذَرِيْ بِمَا عِنْدَكَ يَا لَيْغَاءُ" اے بیوقوف عورت جو کچھ تیرے دل میں ہے اس کو بیان کر۔

لَا فٌ يَلِيْغُ لَيْغًا. الطَعَامُ: کھانا۔

لَيْغٌ تَلِيْغًا. فَبَسِيْلَةُ الشَّجَلِ: بہت اور موٹی چھال والا ہونا۔ لَيْغٌ فَلَانٌ الْمَلِيْفُ: لیف کو بنانا۔ الْمَلِيْفُ فَلَانًا: کسی کی کھال کو کھجور کے ریشے سے لٹانا۔

السُّلَيْفُ: کھجور کے درخت کی چھال۔ واحد لَيْفَةٌ.

الْمَلِيْفَانِي: کھجور کی چھال کے مشابہ۔

لِحِيَةٌ لَيْفَانِيَّةٌ: گھٹی اور پھیلی ہوئی دائرہ سی۔

الْمَلِيْفُ: حمام میں کھجور کی چھال سے بدن کو ملنے والا ملازم۔

لَا قِ السَّدْوَاةُ يَلِيْغُهَا لَيْغًا وَلَيْغَةٌ: صوف ڈالنا۔ روشنائی درست کرنا۔ دوات کو صلیغہ کہتے ہیں۔ لَأَقَتِ الدَّوَاةُ رُوشَانِي كَا صُوفٍ سِي چٹنا۔

لَا قِ يَلِيْغُ لَيْغًا وَلِيَاغَةً وَلِيَاغًا وَلِيَاغَانًا بِلَانٍ: پناہ لینا اور چٹنا..... بِه الْقُوْبُ: بدن کے مناسب ہونا۔ کہا جاتا ہے "مَسَالِقَتُ بَغْدَاةٍ بَارِضٌ" میں تیرے بعد کسی زمین میں نہیں رہا۔ "وَهَذَا اَمْرٌ لَا يَلِيْغُ بِكَ وَلَا يَلِيْغُكَ" یہ کام تمہارے مناسب نہیں اور کہا جاتا ہے "مَسَا يَلِيْغُ اَنْ تَفْعَلَ كَذَا" تمہارے لئے یہ مناسب نہیں کہ تم ایسا کرو۔ "وَفَلَانٌ لَا يَلِيْغُ بِبَلَدٍ" فلاں کسی شہر میں نہیں ٹھہرتا۔

لَيْقُ الطَعَامُ: کھانے کو نرم کرنا..... الشَّرِيْدُ بِالسَّمْنِ: زیادہ مٹی ڈالنا۔

الْاِقِ السَّدْوَاةُ الْاِقَاةُ: صوف ڈالنا۔ اور روشنائی درست کرنا..... فَلَانًا بِنَفْسِهِ: اپنے

اپنے

اپنے

اپنے

اپنے

اپنے

اپنے

لايَسَهُ مُلَائِنَةٌ وَلِيَانًا: نرمی کرنا۔ نرم برتاؤ کرنا۔ مدد بہت کرنا۔	داخل ہونا۔	ساتھ لگا لینا۔ کہا جاتا ہے "مَا أَلْقَيْتَنِي الْبُصْرَةَ" یعنی میں بصرہ میں نہیں ٹھہرا "وَفَلَانٌ يَأْتِيكَ بَلَدٌ" فلاں کسی شہر میں نہیں ٹھہرتا۔ "وَفَلَانٌ مَا يُتْلِقُ يَدَهُ شَيْئًا" یعنی فلاں کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ٹھہرتی "وَهَذَا سَيَفُتْ لَا يُتْلِقُ شَيْئًا" یعنی یہ ایسی ٹکوار ہے کہ ہر چیز کو کاٹ دیتی ہے۔
تَلَيْنَ الشَّيْءُ تَلَيْنًا: نرم ہونا..... لِفَلَانٍ: چالوسی کرنا۔	الليل: رات (نذکرہ مؤنث) ج الليالي یا کی زیادتی کے ساتھ خلاف قیاس اور لیسابیل بھی کہا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ لیل واحد معنی میں جمع کے ہے اور اس کا واحد لیلہ ہے جیسے تَمَسُوْا وَتَمَسْرَةٌ اور کہا گیا ہے کہ لیل مثل لیلۃ ہے جیسے کہ عَشِيٌّ وَعَشِيَّةٌ مگر فرق یہ ہے کہ لیل نہار کے مقابل ہے اور لیلہ: یوم کے۔	التيق: اتفاقاً فَلَانٌ بِفَلَانٍ: دوستی کرنا۔
اِسْتَلَانَ اِسْتِلَانَةً: نرم سمجھنا۔ نرم پانا۔	المليلى: لیل کی جانب منسوب۔ وہ شخص جو رات کو چنانا پسند کرے۔	لَقَدْ: چنانا..... الرَّجُلُ: بے نیاز ہونا۔ اور کہا جاتا ہے "اِلْتِصَاقٌ قَلْبِي بِفَلَانٍ" میرا دل فلاں کے ساتھ لگ گیا۔
السليان: مضم۔ آسودہ زندگی۔ کہا جاتا ہے "وَهِيَ لِيَانٌ مِنَ الْعَيْشِ" وہ آسودہ زندگی اور ناز و نعمت میں ہے۔	المليلى: لیل کی جانب منسوب۔ وہ شخص جو رات کو چنانا پسند کرے۔	اِسْتِلَاقَهُ بِهِ: چپکا نا۔
اللئين: نرم۔ ج لئنون اور اتباع کی بنا پر کہا جاتا ہے رَجُلٌ هَيِّنٌ لَيِّنٌ.	المليلى: لیل کی جانب منسوب۔ وہ شخص جو رات کو چنانا پسند کرے۔	السلياق: چراگاہ۔ ثابت قدمی۔ مستقل مزاجی۔
الليين: مضم۔ مچوہ مچھور کے علاوہ ہر ایک قسم کی مچھور کا درخت واحد لئينة.	المليلى: لیل کی جانب منسوب۔ وہ شخص جو رات کو چنانا پسند کرے۔	الملياق: آگ کا شعلہ۔
السلينة: لئین کا مؤنث۔ لان کا اسم مرہ۔ تکیہ اور اس کو نرمی کی بنا پر لئینہ کہتے ہیں۔	المليلى: لیل کی جانب منسوب۔ وہ شخص جو رات کو چنانا پسند کرے۔	المليق: ایک سیاہ چیز ہے جس کو سرمد میں ملاتے ہیں۔
السلينة: مضم۔ لان کا اسم نوع۔ کمزوری۔ ڈھیلا پن۔ الليانة: نرمی۔	المليلى: لیل کی جانب منسوب۔ وہ شخص جو رات کو چنانا پسند کرے۔	المليقة: اسم ہے لاق سے۔ دوات کا صوف دیوار میں لگانے کی شے۔ ج ليق.
اللئين: نرم۔ ج لئنون. وَالْيِيَاءُ: اللأين: نرم۔ ج الأين: بہت نرم۔	المليلى: لیل کی جانب منسوب۔ وہ شخص جو رات کو چنانا پسند کرے۔	لَيِّنُ الشَّيْءِ: تیل لگانا۔ اللَّيْقُونَةُ: خاص تیل۔
الملينة: نرمی۔ کہا جاتا ہے "إِنَّهُ لَذُوْ مَلِيْنَةٍ" وہ نرمی و مہربانی والا ہے۔	المليلى: لیل کی جانب منسوب۔ وہ شخص جو رات کو چنانا پسند کرے۔	وَجْهَةٌ مُلْتَمَقَةٌ: خوبصورت و دل پسند چہرہ اور اصل مُلْتَمَقٌ بہ ہے۔
الملمين من الأذوية: قبض کش دوا۔	المليلى: لیل کی جانب منسوب۔ وہ شخص جو رات کو چنانا پسند کرے۔	لَا يَسَهُ مُلَائِنَةٌ: رات کے لئے اجرت پر لینا اور کہا جاتا ہے "عَاصِلَةٌ مُلَائِنَةٌ" لیل سے جیسے "عَاصِلَةٌ مَيَاوَمَةٌ" یوم سے۔
المليوفر واليئوفر: کنول کا پھول۔	المليلى: لیل کی جانب منسوب۔ وہ شخص جو رات کو چنانا پسند کرے۔	الآل القوم الألا واليئولا اليالا: رات میں لاء لئین لئنا و لئانا و لئينة یعنی نرمی۔
لاة يلية لئها: چھینا۔ بلند ہونا۔	المليلى: لیل کی جانب منسوب۔ وہ شخص جو رات کو چنانا پسند کرے۔	لَيِّنُ الشَّيْءِ تَلَيْنًا وَالْاِنَّهَ الْاِنَّهَ وَالْيِنَّهَ الْاِيَانَا: نرم کرنا۔ کہا جاتا ہے الْاَنَّ لَلْقَوْمِ جِنَاحَهُ: اس نے قوم سے نرم برتاؤ کیا۔
السليوان: ایوان۔ محل جو کشادہ ہو اور تین اطراف سے گھرا ہوا ہو۔	المليلى: لیل کی جانب منسوب۔ وہ شخص جو رات کو چنانا پسند کرے۔	
اليياء. يائئة العيين والملام: ایک قسم کا سفید غلہ (..... واليياء) پانی سے ڈور جگہ۔	المليلى: لیل کی جانب منسوب۔ وہ شخص جو رات کو چنانا پسند کرے۔	



بہتا ہوا ہونا۔ نرم و نازک ہونا۔
أَمَّا الرَّيُّ النَّبَاتُ: نباتات کو تروتازہ کرنا۔
إِفْتَادَ الْخَيْرِ: بھلائی حاصل کرنا۔

المَاءُ وَالْيَمُونُودُ: تروتازہ نرم و نازک۔ کہا جاتا ہے "زَجَلٌ أَوْ غَضَنٌ مَاءٌ وَيَمُونُودٌ وَجَارِيَةٌ مَسَاةٌ وَيَمُونُودٌ وَيَمُونُودَةٌ" نرم و نازک (مرد یا شاخ یا لڑکی)

المَيْبُودُ: نازک۔ ناز پروردہ۔
مَازَ (ف) مَازًا السِّقَاءَ: وسیع کرنا۔ بَينَ القَوْمِ: فساد کرنا۔ فساد پر آکسانا۔

مَيْرَ (س) مَازًا. الجُرْحُ: زخم کا خراب ہونا اور سو جانا۔ عَلِيٌّ فَلَانٌ: دشمنی سوچنا۔
إِشَارَ عَلِيٌّ فَلَانٌ: کینہ کرنا۔

مَاءَ رَهْ مَنَارًا وَمَاءَ رَهْ: مفاخرت کرنا۔
هُ فَبِيْ فَعْلِهِ: برابری کرنا۔ مَاءَ رَبَّيْنِ القَوْمِ: فساد ڈالنا۔ فساد پر آکسانا۔

تَمَاءَ رَتَمًا وَرَا: ایک دوسرے پر فخر کرنا۔
السَّبِيرُ مِنَ الْأَمُورِ: سخت و دشوار۔
والمَيْرُ: فساد انگیز۔

المَيْرَةُ: عداوت۔ چغل خوری۔ ج مَيْرَ. أَمْرٌ مَيْرٌ: سخت۔
مَاسَ (ف) مَاسًا عَلِيَّهُ: غضبناک ہونا۔

بَينَ القَوْمِ: فساد انگیزی کرنا۔ الدَّبْحُ الخَلْدُ: جرم ساز کا کھال کو ماننا (لنا)۔
وَمَيْسَ (س) مَاسًا الجُرْحُ: زخم کا کشادہ ہونا۔

المَاسُ: بمص۔ وہ شخص جو کسی کی نیحت قبول نہ کرے۔

المَاسِيسُ وَالْمَاسُ وَالْمَاسُوسُ وَالْمَاسِيسُ وَالْمَاسُوسُ: جملہ ذہنی امور۔

اور جب اس پر حرف چار داخل ہو تو الف محذوف ہوتا ہے اور فتح میم پر باقی رہتا ہے جیسے بِسْمِ وَعِلَامٌ اور کبھی میم ساکن کیا جاتا ہے۔

(۲) موصولہ جیسے "مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَعُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقِي"۔

(۳) وہ جو جزا کے لئے منتخب ہو جیسے "مَا يَفْعَلُ أَفْعَلٌ"۔

(۴) وہ جو توجہ کے لئے ہو جیسے "مَا أَحْسَنَ ذَيْلًا"۔

(۵) وہ جو فعل کے ساتھ مصدر کی تادل میں ہو جائے جیسے "تَلَفَّنِي مَا صَنَعْتَ"۔

(۶) وہ جو کمرہ ہو اور اس کے لئے صفت لازم ہے جیسے "مَزْرُوثٌ بِمَا مُعْجَبٌ لَكَ"۔

(۷) وہ جو ابہام کے لئے ہو جیسے "أَعْطِنِي كِتَابًا مَا" یعنی کوئی کتاب مجھے دو۔ "جَاءَ لِأَمْرٍ مَا" کسی کام کے لئے آیا۔ اس کا نام ابہامیہ ہے اور "عَسَلْتُهُ عَسَلًا يَعْصًا" کی تقدیر عَسَلْتُهُ يَعْصُ الفَسَلُ ہے۔

السَّاهِيَةُ مِنَ الْأَمْرِ أَوْ الشَّيْءِ: حقیقت طبیعت تو امشی یا بروہ چیز جو ماہو کے جواب میں واقع ہو۔

الماء: دیکھئے موہ۔
مُوجٌ (ك) مُوُوجَةٌ: بے وقوف ہونا۔
..... الماءُ: پانی کا تڑوا دکھاری ہونا۔

المَاجُ: بے وقوف۔ مضطرب۔ اضطراب۔ کڑوا دکھاری پانی۔

مَآذٌ (ف) مَآذًا. النَّبَاتُ أَوْ الشَّجَرُ: نباتات کا اعلیٰ تروتازہ ہونا۔ جَمْرٌ أَوْ مَاءٌ

م : أَلِيمٌ: بنیادی حروف میں سے چوبیسواں حرف۔ یہ حروف شغوی سے ہے۔

م: حرف ہے جو جمع ذکور پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے "ذَلِكَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ" اور کبھی حرف قسم ہوتا ہے اور لفظ اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ جیسے "مَا لِلَّهِ لَا فَعْلٌ" اور کبھی حرف جر کے بعد استفہام ہوتا ہے جیسے "بِسْمِ وَعِلَامٌ" کیوں؟ اور اصل میں یہ ما استفہامیہ ہے جس میں سے الف محذوف ہے اور میم کی حرکت فتح کی باقی رہ گئی۔

مَآ: دو قسمیں ہیں۔ حرفیہ واسمیہ۔ حرفیہ کی چند قسمیں ہیں۔

(۱) نافر۔ جیسے "مَا هَذَا بَشَرًا"۔

(۲) زائدہ۔ جیسے "فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ"۔

(۳) کاذبہ۔ جیسے "كَانَمَا يُسَافِقُونَ إِلَى الْمَوْتِ"۔

(۴) مصدریہ جیسے "وَصَالَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحِمَتْ"۔

(۵) مصدریہ ظرفیہ جیسے "وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا ذُمَّتْ حَيًّا"۔

اسمیہ کی قسمیں حسب ذیل ہیں۔
(۱) استفہامیہ اور اس سے غیر ذوی العقول کے متعلق سوال ہوتا ہے جیسے "مَا عِنْدَكَ" تمہارے پاس کیا ہے اور ذوی العقول کی صفات کے متعلق بھی سوال کیا جاتا ہے جیسے "مَا زَيْدٌ" اس کے جواب میں مثلاً عاقل یا محقق کہا جائے گا۔

مُسْوُونَ. الْقَوْمُ: اپنے آپ کو شامل کر کے سو (۱۰۰) پورا کرنا۔

تَمَسَّى تَمَسَّى: التَّمَسُّؤُ: کشادہ ہونا۔ کھینچنا۔ الشَّرْبِيُّنَ الْقَوْمُ: فساد پھیلنا۔

المِائَةُ: سو (۱۰۰) ج مِئَاتٌ وَمِئُونَ وَمِئُونَ وَمِئُونَ وَمِئَاتٌ: اور نسبت کے لئے مِئَاتِي: لفظ مائے: میں الف لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا۔ کہا جاتا ہے "شَارِطَةُ مِئَاتَةٍ" یعنی اس نے سو (۱۰۰) کی شرط کی جیسے کہا جاتا ہے شَارِطَةُ مِئَاتَةٍ یعنی جزا کی شرط کی۔

مَتَهُ (ن) مَتَا: کھینچنا..... الخَبْلُ: رشتی کو بغیر چرخی کے کھینچنا..... السِّيَاطُ: بقرانہ تعلق پیدا کرنا۔ کہا جاتا ہے "مَتَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ" مَتَّ: ہمارے درمیان قربت قریب ہے..... مَتَّ: قربت ڈھونڈنا۔

مَاتَ فَلَانًا: قربت یا ودلانا۔

المَمَاتَةُ ج مَمَاتٍ: قربت و رشتہ داری۔

مَتَاهُ (ف) مَتَا بِالْفِعَاءِ: لالچی سے مارنا۔

مَتَّحَ (ف) مَتَّحَا الْمَاءَ: پانی نکالنا.....

الذَّلْوُ وَبَهَا: ڈول کھینچنا۔ صفت مَتَّحٌ وَمَتَّوْحٌ فَلَانًا: مارنا پچھاڑنا..... الشَّيْءُ: اکھیرنا..... الشَّجْرَةَ: کاٹنا..... الخَمْسِينَ: پچاس کے قریب ہونا۔

مَتَّحَ وَمَتَّحَ وَأَمَّحَ: الجِرَاءُ: نڈی کا اٹنے دینے کے لئے زمین پر دم کو پکھلانا۔

إِفْتَحَ الشَّيْءُ: جڑ سے کھینچنا۔

تَمَسَّحَتْ الْإِبِلُ فِي سَبِيلِهَا: اپنے ہاتھوں سے آرام لینا۔

الْمَتَّوْحُ: پانی نکالنے والا دور۔ بَسْرُ مَتَّوْحٍ: قریب پانی والا کتوال۔

الْمَتَّاحُ: بہت لبا۔ کہا جاتا ہے يَوْمَ مَتَّاحٍ وَفَرَسَخَ مَتَّاحٍ.

مَتَّحَ (ن ش) مَتَّحَا الشَّيْءُ: اکھیرنا..... کاٹنا..... الجِرَاءُ: نڈی کا اٹنے دینے کے لئے زمین پر دم مارنا..... بِالسَّدَلُو: کھینچنا..... مَتَّحًا: تیر مارنا..... فَلَانًا: مارنا اور دور کرنا

برن کامیانا۔ مَانَ (ف) مَانَا: الرَّجُلُ: ناف پر مارنا۔

چوکنار ہنا۔ پرہیز کرنا..... الْقَوْمُ: نان و نفقہ برداشت کرنا (اور صانِ يَمُونُ اجوف وادی سے بھی مستعمل ہے) "أَتَانِي هَذَا الْأَمْرُ فَمَا مَانْتُ لَهُ أَوْ مَامَانْتُ مَانَةً" مجھے یہ معاملہ پیش آیا اور میں نے اس کی پروا نہیں کی اور نہ مجھے اس کا علم ہوا۔ "وَأَمَانُ مَانِكِ وَأَمَانُ مَانِكِ" یعنی جو تمہیں اچھا معلوم ہو کر "وَأَنَا مَانَةٌ".

مَانٌ تَمَسَّنَةُ: الشَّيْءُ: تیار کرنا..... فَلَانًا: خیر دار کرنا۔ جَمَانًا..... وَمَانَةٌ: فِي الْأَمْرِ: غور کرنا سوچنا۔

تَمَسَّنَ نَ تَمَسَّنَا الشَّيْءُ: پراٹا ہونا۔ کہہنا ہونا۔ المَمَانَةُ: ناف۔ ناف کے ارد گرد۔ ج مَمَانَاتٌ وَمِئُونَ: خلاف قیاس (جیسے بَدْرَةٌ وَبَدْرٌ)..... المَمَانُ: کمر۔ المَمَانُ: کدال۔

المَمَانَةُ وَالْمَمَانَةُ: خوراک۔ سختی و بوجہ ج مَمَانٌ.

المَمَانَةُ: علامت۔

المَمَانَةُ: سزاوار۔ لائق۔ مناسب۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مَمَانَةٌ لِكَذَا" یعنی وہ اس کے مناسب ہے۔

مَا يَمْسُو وَمِئَاتُ السَّنْوَرُ: بلی کامیادوں میاؤں کرنا۔

مَا يَمْسُو وَمِئَاتُ: الجِلْدُ: کھال کو پھیلانے کے لئے کھینچنا..... بَيْنَهُمْ: فساد انگیزی کرنا۔

تَمَسَّى تَمَسَّى: الجِلْدُ: کھال کھینچ کر چوڑی ہونا..... الشَّرْبِيُّنَهُمْ: فساد پھیلنا۔

المَمَانَةُ: پست زمین ج مَمَانٌ.

مَسَى يَمَسَى مَانًا: الجِلْدُ: کھال کو کھینچنا۔

الْقَوْمُ: اپنے کو شامل کر کے سو (۱۰۰) پورا کرنا۔ قوم کو مَمَسِّيُونَ کہتے ہیں..... بَيْنَهُمْ: فساد انگیزی کرنا..... فِي الْأَمْرِ: مبالغہ کرنا..... الشَّجْرُ: درخت کا پتوں والا ہونا۔

أَمَسَى إِمَاءً: الْقَوْمُ: سو (۱۰۰) ہونا۔ صفت

مَاضَةٌ (ف) مَاضَا عَنْهُ يَكْذِبُ: دُخ کرنا۔

بِنَانًا: مَاضَ الْمَطَرُ الْأَرْضَ: سیراب کرنا۔ مطر کو مینیش کہتے ہیں۔

مَنِيَقٌ (س) مَنَاقَا الصَّبِيِّ: سسکی لینا۔ صفت مَنِيَقٌ..... الرَّجُلُ: شدت نینٹ سے رونے لگنا۔

أَمَاقٌ: سسکی لینا۔

إِمْتَاقٌ: سسکی لینا..... غَضَبُهُ: سخت غضبناک ہونا..... إِلَيَّ بِالْكَأَمِ: روانا ہونا۔

الْمَنَاقُ وَالْمُنُوقُ وَالْمُنُوقُ ج أَمَاقٌ وَأَمَاقٌ وَمُنَاقِي وَمَنَاقِي. وَالْمُنُوقِيُّ وَالْمُنُوقِيُّ وَالْمَنَاقِيُّ: ج مَنَاقِي: ناک کی طرف کا گوشہ چشم۔ الْمُنُوقُ وَالْمُنُوقُ مِنَ الْأَرْضِ: زمین کے پست کنارے۔ ج أَمَانٌ.

الْمَنَاقُ: زیادتی گریہ۔

الْمَنَاقَةُ: شرم و عار سے کراہت۔ شدت غضب۔ حیت۔

الْمَنِيَقُ: جلدی رو پڑنے والا اور اسی سے مثل ہے "أَنَا تَمِيَقٌ وَأَنْتَ مَنِيَقٌ" دو مختلف مزاج لوگوں پر بولی جاتی ہے اس لئے کہ تَمِيَقُ جلدی سے شرارت کرنے والے کو اور مَنِيَقُ جلدی سے رونے والے کو کہتے ہیں۔

الْمَنَاقَةُ: سسکتی۔ گریہ و زاری کرنا۔

الْمَنَاقِيُّ: ناک کی طرف کے آنکھ کے گوشے واحد۔ مَنَاقِي.

مَنَالٌ وَمَنِيَلٌ (ف ن س) وَمَوَالٌ (ك) مَوَالَةٌ وَمَالَةٌ: مونا ہونا۔ صفت مَنِيَلٌ وَمَنَالٌ کہا جاتا ہے "جَاءَهُ أَمْرٌ مَنَالٌ لَهُ مَالًا" اس پر ایسا معاملہ آ پڑا جس کے لئے وہ تیار نہیں تھا اور نہ اس کو اس کا علم تھا۔

الْمَنَالُ: جائے پناہ۔

الْمَنَالَةُ: ہانچ۔ ج مَنَالٌ.

الْمَمْتِيلُ: لہا سیدھا مرد۔

الْمَمَالِجُ: کرنی۔ کھل کرنے کا آلہ ج مَمَالِجٌ (دخیل) اس کے لئے فصح عربی المِئْتَةُ: ہے۔

مَمَامَاتٌ مَمَامَةٌ: الشَّاةُ أَوْ الظَّيْنَةُ: بکری یا

..... الشئى: بلند ہونا..... فى الشئى: گزنا
..... بسلجہ: بیت کرنا..... الشئى: بلند کرنا
..... الخمينين: پچاس کے قریب ہونا
..... الجارية: جماع کرنا۔
..... افتاخ الشئى: کھینچنا۔
..... غوذة فينخ: نازک لمبی کٹڑی۔
..... متذ (ن) متوذا بالمكان: اقامت کرنا۔
..... متو (ن) مترا الشئى: کاٹنا..... الخجل: رسی کھینچنا..... بسلجہ: بیت کرنا..... الجارية: جماع کرنا۔
..... تماقر: گزنا..... تماقر والشئى: کھینچنا۔
..... اشتر ابتازا: الخجل: رسی کھینچنا (اس کی اصل افتخر ہے پہلی تاہم کوہیم سے بدل دیا گیا ہے)
..... المتر: میٹر۔
..... السيوور و بجراف: موسی حالات کی تبدیلی کا پتہ بتانے والا آلہ۔

..... متز (ن) متزا: بسلجہ: بیت کرنا۔
..... متس (ش) متسا الشئى: اکھیرنے کے لئے جھکا تا..... (ن) متسا: بالسئى: پانچا نہ کرنا۔
..... متشت (س) متشا عينه: آنکھ کا دھوپ یا بھوک کی وجہ سے چندھیا جانا۔ صفت
..... امتش: مؤنث متشاء: ج متش.
..... متش (ض) متشا الشئى: انگلیوں سے کھیرنا۔ جمع کرنا..... اخلاف الناقية: آہستہ آہستہ دوہنا۔

..... المتش والمتش: جوانوں کے ناخن کی سفیدی۔
..... متع (ف) متعا و متعة بالشئى: لے جانا۔
..... متع (ف) متوعا الشئى: لمبا ہونا.....
..... النهار: دن کا بلند ہونا..... النبيل: نبیذ کا سخت سرخ ہونا..... الرجبل: زیرک ہونا.....
..... الشراب: دن کے ابتدائی حصہ میں بلند ہونا..... الخجل: رسی کا مضبوط ہونا..... متعا و متعا: بفلان: جھوٹ بولنا..... متعا و متعة بالشئى: لے جانا۔

..... متع (ك) متاعة الرجل: زیرک ہونا۔
..... متع الشئى: لمبا کرنا..... اللثة: طویل عمر دینا۔
..... اللثة بكذا: مدت تک نفع اٹھانے دینا۔
..... المرأة المطلقة: مطلقہ عورت کو متعہ دینا۔
..... أمتعته اللثة بكذا: مدت تک نفع اٹھانے دینا۔ اور کہا جاتا ہے "أبتك الله وأمتع بك" یعنی اللہ تمہاری عمر روز کرے۔ أمتع بصله: فائدہ اٹھانا..... عن كذا: بے نیاز ہونا۔ کہا جاتا ہے "أمتعتى بقرابه: اس نے اپنے فراق و جدائی کا سامان مجھے دیا۔
..... تمتع واستمتع بكذا و من كذا: مدت تک فائدہ اٹھانا..... بصله: آسودگی کے ساتھ زندگی بسر کرنا۔ تمتع: حج تمتع کرنا۔
..... المتع والمتع: مکر۔

..... المتعة والمتعة اسم ہے تمتيع: کا۔ تھوڑا توڑ۔ تھوڑی خوراک۔ شکار یا کھانا جس سے فائدہ اٹھایا جائے کہا جاتا ہے "أبغى منعة أعيش بها" میرے لئے تھوڑی سی خوراک تلاش کرو جس سے زندگی بسر کر سکوں المتعة: مشکیزہ ڈول رسی۔ منعة المرأة: قمیص ازار چادر جو مطلقہ عورت کو دیا جائے اور اس کو منعة الطلاق بھی کہتے ہیں۔ ج متع و متع۔

..... المتاع: چاندی و سونے کے علاوہ سامان زندگی۔ ہر وہ چیز جس کو انسان اپنے یا بچھائے۔ ہر وہ چیز جس سے تھوڑا سا فائدہ اٹھایا جائے پھر فنا ہو جائے کہا جاتا ہے "إنما الحنوية الدنيا متاع" ج أمتعته حج أصابع وأصابع۔
..... المتاع: فخر چیز کا لمبا۔ ہر چیز کا عمدہ۔ نہایت عمدہ۔ بہت سرخ شراب و سرکہ۔ جگلی ہوئی ترازو۔ مضبوط پٹی ہوئی رسی۔ رجبل متاع: افعال خیر میں کامل۔
..... متك (ن) متكا الشئى: کاٹنا۔

..... متانكة همتانكة فى البيع: بیع کی مہارت میں غالب ہونا۔
..... تمتك الشراب: جھوٹ جھوٹ پینا۔
..... المتك والمتك والشئى: کبھی کی تاک۔ لیموں۔ سون۔ متك الذباب: کبھی کی بیٹ۔
..... متل (ن) متلا الشئى: ہلانا۔ زور سے ہلانا۔
..... متن (ك) متانة: مضبوط وقوی ہونا۔ صفت متن و متين۔
..... متن (ن) متونا بالمكان: اقامت کرنا۔
..... الرجبل: قسم کھانا۔ سفر کرنا..... بفلان: پورے دن ساتھ چلنا..... الشئى: کھینچنا..... الكبش: مینڈھے کے پیشہ کو مع روگوں کے نکالنا..... بالسوط: کوزے سے بہت مارنا۔

..... متن (ن وض) متنا و متن: پیٹھ پر مارنا۔
..... متن الشئى: مضبوط بنانا..... الذلوز: ڈول کو مضبوط یا اندھنا..... الخيصة: خیمہ کو مضبوط کرنا..... الطعام: مصالحوں سے عمدہ بنانا.....
..... لمن سابقه: آگے بڑھنے والے سے یہ کہنا کہ فلاں مقام پر آگے بڑھ جاؤ اور میں تم سے آکر مل جاؤں گا۔

..... متان فلانا: نالانا۔ بہت دور کر دینا..... ہ فی الشئى: مقابلہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "بينهما مسانعة" ان کے درمیان ہر چیز میں مقابلہ ہے "متان الرجبل" جیسا معاملہ اس کے ساتھ کیا گیا ہے ویسا ہی کرنا۔

..... متان الشاعران فى الشئى: باہم مقابلہ کرنا۔
..... المتن: مص: پیٹھ (مذکر و مؤنث) متن الشئى: چیز کا فابری حصہ۔ متن الأرض: زمین کا بلند و ہموار حصہ..... الطريق: راستہ کا وسط..... الكتاب: کتاب کی اصل عبارت شرح و حاشیہ کے علاوہ..... اللغة: لغت کے اصول و قواعد اور اس کے مفردات۔ کہا جاتا ہے "تسار متن النهار"

یعنی سارے دن چلنا رہا۔ مَعْنَا الظُّهْرِ: پیچھے کے دونوں طرف کے پہلو ج مَتَانِ وَهُنَّ الْمُنْتَهَى: سخت و بلند زمین۔ مَعْنَا الظُّهْرِ: پیچھے کا پہلو۔ ج مَتَانِ وَهُنَّ.

السَّمِينِ: مضبوط۔ قوی۔ کہا جاتا ہے "جَبَلٌ سَمِينٌ" مضبوط ترسی۔ "وَرْدَاىَ مَيْسِنٌ وَهِنٌ" زایسہ مَعْنَا "شجیدہ رائے۔ اس کی رائے میں شجیدگی ہے اور مَتَانِ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے یعنی باری تعالیٰ قوی و غالب ہے اس کو افعال میں مشقت اور کلفت لاحق نہیں ہوتی۔ ج مَتَانِ.

المَتَانِ: دوستوں کے درمیان کا فاصلہ۔ ج مَتْنِ.

النَّمِينِ: مہس۔ (وَالنَّمَانِ): خیمہ کی رسیاں۔ ج تَمَاتِينِ.

النَّمَانِ: فاقہ۔ متن کتاب کا لکھنے والا۔

نَسِيرٌ مَمَاتِينِ: سفر بعید۔ کہا جاتا ہے "نَسَارٌ سِيرًا مَمَاتِينًا" وہ تیز چلا۔

مَتِيهِ (س) مَتِيهَا: گمراہی میں مبتلا ہونا۔

مَتْنُهُ (ف) مَتْنُهُ الدَّلْوُ: ڈھول کھینچنا۔

نَمْتُهُ: حیران ہونا۔ بے وقوف ہونا۔ بغیر خوبی کے وصف کا طالب ہونا۔ تکبر کرنا۔

بعید ہونا۔ مبالغہ کرنا۔ گمراہی و بے ہودہ باتوں میں مشغول ہونا۔

تَمَاتَنَهُ عَنِ الشَّيْءِ: غفلت برتنا۔ الْقَوْمُ: دور ہونا۔

مَتَانِ يَمْتُو مَتَوًّا الشَّيْءُ: کھینچنا۔ مَتَاهُ بِالْعَصَا: اٹھی سے مارنا۔

امسى انشاء: بری چال چلنا۔ زیادہ رزق والا ہونا۔ بڑی عمر والا ہونا۔

تَمَتَّى: لغت ہے تَمَطَّى میں بمعنی اگلائی لینا۔

جَانَا..... السَّرِقُ وَالسِّقَاءُ: چپکانا..... الرَّجُلُ: موٹاپے کی وجہ سے پسینہ آتا کہا جاتا ہے "جَاءَ يَمْتٌ" جبکہ کوئی موٹا آدمی آئے اور اس کی کھال پر موٹائی کی وجہ سے کچھ تیل کا سا اثر معلوم ہو۔ مَتٌ يَذُه: رومال سے ہاتھ پونچھنا..... مَسَارِنُه: مومچھ کی چکناہٹ کو ہاتھ سے پونچھنا۔ السُّجُوحُ: زخم سے پیپ اور مادہ فاسد کو صاف کرنا..... الْحَدِيثُ: بات پھیلانا۔ نَبَتْ مَتَاتٌ: ترگھاس۔

مَتَجَّحٌ (ن) مَتَجَّحًا الشَّيْءُ: ملانا..... فَلَانَا: کھلانا..... الْبَنَرُ: کنواں صاف کرنا..... بِالْعَطِيَّةِ: بخشش کرنا۔

مَتَدٌ (ن) مَتَدًا نَبِيْنُ الْحِجَارَةِ: چھپ کر گھات میں بیٹھنا اور دیدہ بانی کرنا..... الرَّجُلُ: دیدہ بان مقرر کرنا۔

النَّمَائِدُ: فاقہ گہبان۔ دید بان۔

مَتَطَّطٌ (ن) مَتَطَّطًا: ہاتھ سے زمین میں کسی چیز کو گاڑنا۔

مَتَعَتٌ (ن س ف) مَتَعَةً الْمَرْأَةُ: عورت کا بری چال چلنا۔

تَمَتَّعٌ: بھوکا چلنا۔

المَتَّعَاءُ: بد بودار بھوکا۔

مَتَلٌ (ن) مَتَلًا مَتَلَةً بِالرَّجُلِ: عذاب دینا..... بِالْقَيْلِ: مثلاً کرنا۔ ناک کان وغیرہ کا ٹٹا۔

مَتَلٌ (ن) مَتَلًا مَتَلَةً بِالرَّجُلِ: عذاب دینا..... بِالْقَيْلِ: مثلاً کرنا۔ ناک کان وغیرہ کا ٹٹا۔

مَتَلٌ (ن) مَتَلًا مَتَلَةً بِالرَّجُلِ: عذاب دینا..... بِالْقَيْلِ: مثلاً کرنا۔ ناک کان وغیرہ کا ٹٹا۔

مَتَلٌ (ن) مَتَلًا مَتَلَةً بِالرَّجُلِ: عذاب دینا..... بِالْقَيْلِ: مثلاً کرنا۔ ناک کان وغیرہ کا ٹٹا۔

مَتَلٌ (ن) مَتَلًا مَتَلَةً بِالرَّجُلِ: عذاب دینا..... بِالْقَيْلِ: مثلاً کرنا۔ ناک کان وغیرہ کا ٹٹا۔

مَتَلٌ (ن) مَتَلًا مَتَلَةً بِالرَّجُلِ: عذاب دینا..... بِالْقَيْلِ: مثلاً کرنا۔ ناک کان وغیرہ کا ٹٹا۔

مَتَلٌ (ن) مَتَلًا مَتَلَةً بِالرَّجُلِ: عذاب دینا..... بِالْقَيْلِ: مثلاً کرنا۔ ناک کان وغیرہ کا ٹٹا۔

مَتَلٌ (ن) مَتَلًا مَتَلَةً بِالرَّجُلِ: عذاب دینا..... بِالْقَيْلِ: مثلاً کرنا۔ ناک کان وغیرہ کا ٹٹا۔

مَتَلٌ (ن) مَتَلًا مَتَلَةً بِالرَّجُلِ: عذاب دینا..... بِالْقَيْلِ: مثلاً کرنا۔ ناک کان وغیرہ کا ٹٹا۔

مَتَلٌ (ن) مَتَلًا مَتَلَةً بِالرَّجُلِ: عذاب دینا..... بِالْقَيْلِ: مثلاً کرنا۔ ناک کان وغیرہ کا ٹٹا۔

جَمَسَ بِنَانَا..... تَمَشِيلاً وَتَمَشَالًا الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: مشابہت دینا۔ مَتَالَهُ مَتَالَةً: مشابہت دینا۔ مَتَالَهُ بِفُلَانٍ: تشبیہ دینا۔

أَمَشَلَهُ: فَلَانًا وَبِهِ: مانند بنانا..... الْحَاكِمُ فَلَانًا: قصاص میں کُل کرنا..... الْحَاكِمُ فَلَانًا مِنْ فُلَانٍ: قصاص لینا۔

تَمَشَلُ الْحَدِيثُ وَبِالْحَدِيثِ: بیان کرنا..... الشَّيْءُ: مثال کا تصور کرنا..... لَهَ الشَّيْءُ: تصور ہونا..... بِالشَّيْءِ: مثال دینا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا النَّيْتُ مَقْلٌ يَتَمَشَلُ بِهِ" یہ شعر مثال ہے جس کی مثال دی جاتی ہے.....

مَسَنَهُ: بدلہ لینا..... مَسَنَ يَدَيْهِ: سامنے کھڑا ہونا۔ تَمَشَلٌ مِثَالًا: نمونہ بنانا..... بَدِ: مشابہ ہونا۔

إِمْتَشَلُ الْمَقْلُ وَبِالْمَقْلِ: بیان کرنا..... الْآخِرُ: فرما برداری کرنا..... الشَّيْءِ: نمونہ پر بنانا..... الطَّرِيقَةُ: پے روی کرنا..... مِمَّنِ الْقَابِلِ: قصاص لینا۔

تَمَاتَلُ الشَّيْئَانِ: باہم مشابہ ہونا..... الْعَلِيلُ مِمَّنِ عَلِيْهِ: بیمار کا اچھے ہونے کے قریب ہونا۔

المِثْلُ: شبہ۔ نظیر۔ مشابہ۔ ج امثال (مذکورہ موزن و واحد مشبہ جمع سبھی کے لئے آتا ہے) کہا جاتا ہے "هُوَ وَهْنِي وَهْمًا وَهْمٌ وَهْنٌ يَمِثْلُهُ" اور مِمَّنِ امثالہم بھی بولا جاتا ہے۔

و"فَلَانٌ مَسْتَرَاذٌ لِمِثْلِهِ" یعنی اس کے مانند طلب کیا جاتا ہے اور اس پر نکل کیا جاتا ہے اور ایسا ہی ہے "هُوَ مَسْتَرَاذٌ لِمِثْلِيهَا".

المِثْلُ: مشابہ۔ نظیر۔ (لغت ہے مثل میں) صفت۔ بات۔ کہاوت (کہاوت کے الفاظ میں کسی قسم کا تغیر نہیں ہوتا) عبرت۔ دلیل۔

ج امثال.

المِثْلَةُ: آفت۔ ناک کان کا ٹٹا۔ المِثْلَةُ وَالْمِثْلَةُ: سزا۔ عذاب۔ المِثْلَةُ: آدم ناشیہ کی عبرت ناک سزا میں۔ ج مثلات.

المِثَالُ: مقدار۔ شبہ۔ قصاص۔ بستر۔ چیز۔

المِثَالُ: مقدار۔ شبہ۔ قصاص۔ بستر۔ چیز۔

المِثَالُ: مقدار۔ شبہ۔ قصاص۔ بستر۔ چیز۔

المِثَالُ: مقدار۔ شبہ۔ قصاص۔ بستر۔ چیز۔

المِثَالُ: مقدار۔ شبہ۔ قصاص۔ بستر۔ چیز۔

المِثَالُ: مقدار۔ شبہ۔ قصاص۔ بستر۔ چیز۔

المِثَالُ: مقدار۔ شبہ۔ قصاص۔ بستر۔ چیز۔

بِجِ اَنْبَلَةٍ وَمُثْلٍ وَمُثْلٍ.

المثالة: فضیلت۔ اچھی حالت۔

الْمُتَوَلِّئَةُ: شعر جو مثال میں پیش کیا جائے بچ
اُمّائیل و اُمّولات۔

الْمُشَالِيَةُ: ایک فلسفی مذہب جو چیزوں کی
حقیقت کا انکار کرتے ہیں بقول ان کے یہ
خیالی چیز ہے۔ اس کو الْمَشَادِيَةُ بھی بولتے
ہیں۔

الْمُسْتَلُّ وَالْمُسْتَيْلُ فِي الْغِدَاءِ: غذا کی اصل
صورت تبدیل ہو کر دوسری غذا نیت والی
شکل بننا۔

الْتِمْنَالُ: تصویر۔ مجسمہ۔ بچ تمائیل۔

الْمَيْثِيلُ: شبیہ۔ نظیر۔ عمدہ۔ بچ مُثَلِّ.

الْمَائِلُ: نا۔ بچ مُثَلِّ جیسے خادم و خادمہ.....
مِنَ الرِّسْمِ: مٹا ہوا نشان۔ کہا جاتا ہے مِثْلُ
مَائِلٌ.

السَّائِلَةُ: مائیل: کا مؤنث۔ چراغ دان۔
ذیوت۔

الْاَمْتَلُ: افضل۔ بچ اَمَائِلُ وَمُثَلِّ: مؤنث
مُثَلِّی. اَمَائِلُ الْقَوْمِ: قوم کے برگزیدہ
لوگ۔ الطَّرِيقَةُ: الْمُثَلِّی: اشد بالحق طریقہ
اور کہا جاتا ہے الْمُرْتَضَى الْمَوْمُ اَمْتَلُ:
مرئیت کی حالت آن اچھی ہے۔

مَمْسُتٌ مَمْسُتَةٌ وَمَمْسَاتٌ زَفَى السَّنَنِ
وَنَحْوَهُ: پیکنا اور ام الممسات..... الفینلة:
بچی کو اچھی طرح سے ترک دینا..... اَمْرُهُمْ:
خط ملط کرنا۔

الشَّيْ: پلانا..... فَلَانَا: پانی میں غوطہ دینا۔

مَمْنِ (س) مَمْنَا: مٹانہ میں پیشاب نہ کرنا۔
مَمْنَتُ اَمْنٌ وَمَمْنٌ: مؤنث مَمْنَا مَمْنَةٌ.

مَمْنِ (ن ش) مَمْنَا الرَّجُلُ: مٹانہ پرارنا۔

مَمْنِ مَمْنَا: مٹانہ کی بیماری والا ہونا۔ مَمْنَتُ
مَمْنُونٌ وَمَمْنِيْنٌ.

الْمَمْنَانَةُ: پیشاب جمع ہونے کی جھلی۔ بچہ
والی۔ بچ مَمْنَانَاتُ.

مَمَج (ن) مَمَجَا الشَّرَابُ او الشَّيْ وَبِهِ مِنْ
قَمَسِه: کھلی کرنا۔ اور بطور استعارہ کے کہا جاتا

ہے "هَذَا كَلَامٌ تَمَجُّهُ الْاَسْمَاعُ" یعنی یہ

ایسا کلام ہے جس کو کان سننا نہیں چاہتے۔

مَمَجَّ الْعَيْبُ: انگوڑا کا پک کر مٹھا ہونا۔

اَمَجَّ الْعُوْدُ: لکڑی میں تری ہونا۔

الْفَرَسُ: دوڑنے لگانا..... الرَّجُلُ: ملک میں
پھرنا۔

اِنْمَجَّ: پیکنا۔

الْمَصَجُ: مِص۔ ماش کے دانے۔

السَّمَجُ: نا۔ جس کے بڑھاپے کی وجہ سے
رال ٹپک رہی ہو۔ بچ مَمَجَّجٌ وَمَمَجُّوْجٌ.

الممجاج: مٹی۔ شارج۔

الممجاج: تموک۔ ماش کے دانے۔ مَمَجَّجٌ

السَّمْعَلُ: شہد۔ مَمَجَّجُ الْعَيْبِ: شراب۔

مَمَجَّجُ الْمَزْنِ: ہارش۔ کہا جاتا ہے "نَجَبٌ
مَمَجَّجًا" اس نے چینا کی روٹی پکائی۔

الممجاجة: تموک۔ مَمَجَّجَةُ الشَّيْ: نچوڑ۔

السَّمَجِجُ: باجپوں کا ڈھیلا ہونا۔ انگوڑوں کی
پچنگلی۔

الممجاج: بہت کھلی کرنے والا۔ کاتب۔

السَّمَجُ: پتھر پر شہد کے نقطے۔

السَّمَجَةُ: مِج: کا اسم مرثہ۔ کہا جاتا ہے
"مَمَجِي فِي الْاِنْسَانِ الْاَمَجَةُ" برتن میں
صرف کھلی کے لائق پانی باقی رہا۔

الممجاج: شہد کی کھیاں۔ مست لوگ۔

مَمَج (ف) مَمَجَّجَا وَمَمَجَّج (س)

مَمَجَّجَا وَمَمَجَّجُ الرَّجُلُ: تکبیر کرنا۔ فخر کرنا۔

مَمَجَّجُ الدَّلْوِ فِي الْبَيْتِ: ڈول کو کونوئیں میں
حرکت دینا۔

الممجاج: متکبر۔

مَمَجِد (ن) مَمَجِدًا: بزرگوار ہونا..... فَلَانَا:

بزرگی میں غالب ہونا..... الرَّاعِي الْاِبْلُ:

چارے سے سیر کرنا۔

مَمَجِدْت (ن) مَمَجِدًا وَمَمَجِدُوْا: الْاِبْلُ:

بہت چارہ والی چراگاہ میں چر کر سیر
ہونا۔ مَمَجِدَتُ مَمَجِدَةٌ: بچ مَمَوَّجِدٌ وَمَمَجِدٌ

وَمَمَجِدٌ.

مَمَجِد (ك) مَمَجِدَةٌ: بزرگوار ہونا۔ مَمَجِدَتُ

مَمَجِدٌ وَمَمَجِدَةٌ: بچ اَمَمَجِدٌ.

مَمَجِدٌ وَمَمَجِدَةٌ: فلانا: تعظیم کرنا۔ تعریف

کرنا۔ بزرگی کی طرف نسبت کرنا.....

السَّمَطَاءُ: بہت بخشش کرنا..... لِفْلَانٍ مِنْ

كَذَا: زیادہ کرنا کہا جاتا ہے "اَمَمَجِدُهُ ذَمًّا

وَسَبًّا" اس نے اس کی بہت برائی کی بہت

گالی دی "وَلَزَّوْا بِهِمْ فَامَمَجِدُوْهُمْ قِرْبَى"

وہ لوگ ان کے مہمان ہوئے اور انہوں نے

خوب خاطر توضیح کی۔ اَمَمَجِدَتِ الْاِبْلُ:

بہت چارہ والی چراگاہ میں چر کر سیر ہونا.....

فُلَانٌ وَكَذُوْهُ وَلِوَلَدِهِ: بہترین ماؤں کا

انتخاب کرنا۔ کہا جاتا ہے "هُنُوْلَاءُ قَوْمٌ

اَمَمَجِدُهُمْ اَبُوْهُمْ" یہ لوگ وہ قوم ہیں جن

کے باپ نے بہترین ماؤں کا انتخاب کیا۔

اَمَمَجِدٌ وَمَمَجِدَةٌ الرَّاعِي الْاِبْلُ: چارے سے

سیر کرنا۔

مَمَجِدَةٌ مَمَجِدًا وَمَمَجِدَةٌ: بزرگی میں
مقابلہ کرنا۔

تَمَمَجِدُ: بڑا جانا۔

تَمَمَجِدُ: باہم فخر کرنا۔ بزرگی بیان کرنا۔ کہا

جاتا ہے "تَمَمَجِدُوْا فِيمَا بَيْنَهُمْ" انہوں

نے باہم فخر کیا۔

اِسْتَمَمَجِدُ: بزرگی طلب کرنا۔ عمدہ صفات

میں ممتاز ہونا۔

الْمَمَجِدُ: مِص۔ عزت۔ بلندی۔ بلند

زمین۔ بچ اَمَمَجِدَادُ.

الْمَمَجِدُ: نا۔ بزرگی والا۔ اچھے اخلاق

والا۔ شئی مَمَجِدٌ: بہت چیز۔ مؤنث مَمَجِدَةٌ

۔ بچ مَمَوَّاجِدُ.

الْاَمَمَجِدُ: اسم تفضیل۔ بچ اَمَمَجِدُ.

الْمَمَجِدِيَّةُ: چاندی کا ایک سکہ۔ جو سلطان

عبدالحمید کی طرف منسوب ہے۔

مَمَجِر (ن) مَمَجِرًا: پیاسا ہونا۔

مَمَجِر (س) مَمَجِرًا مِنَ الْمَاءِ وَنَحْوِهِ: پیٹ

بھرنا اور سیراب نہ ہونا۔

مَمَجِرَتٌ وَمَمَجِرَتُ الشَّأْءِ: پیٹ میں بچے

کے بڑے ہونے کی وجہ سے لاغر اور بو جھل

ہونا اور اُسے نہ سکتا۔

مَسَاجِرٌ مَسْجَرًا وَمَسَاجِرَةٌ وَمَسْجَرٌ فَلَاتَا فِي
النَّبِيحِ زِيَادَةٌ لِيَنَا - سَوْدٌ لِيَنَا -

المَسْجَرُ: مِص - اُونْت اور بکری کے پیٹ کا
بچہ۔ پیٹ کے بچہ کا خریدنا۔ بڑا لشکر۔
جوا۔ زیادتی اور سود۔ ہر چیز کا بہت۔ عقل۔

المَسْجَرُ: مِص ملک ہنتری۔ ملک ہنتری کے
رہنے والے سونے کے سکہ کی ایک قسم
بکری کے پیٹ میں بچہ کی بڑائی۔

شَاةٌ مَسْجَرَةٌ: پیٹ میں بچہ کے بڑے ہونے
کی وجہ سے ڈبلی بکری۔
الامْتَجَرُ: دبلے جسم کے بڑے پیٹ والا۔

المَسْجَرُ: اُونْت کے پاؤں باندھنے کی رسی۔
المَسْجَرُ مِنَ النِّسَاءِ: جڑواں بچے جننے والی
عورت۔ مَسْجَرٌ مَسْجَرٌ۔

مَسْجَسَةٌ: مجوسی بتانا۔
تَمَسَّجَسَ: مجوسی ہونا۔

المَسْجُوسُ: آتش پرست یا آفتاب پرست
واحد مَسْجُوسٌ سی اور مجوسی کا اطلاق کبھی
جادوگر اور فلسفی پر بھی ہوتا ہے۔

المَسْجُوسِيَّةُ: المجوسیسی: کامونٹ۔ آتش
پرستی یا آفتاب پرستی۔
المَسْجُوسُونَ: ایک قسم کی کشتی۔ رکتے ہوئے
کپڑے۔

مَسْجَعٌ (ن) مَسْجَعًا وَمَسْجَعَةٌ وَامْتَجَعٌ
وَتَمَسَّجَعٌ: مجبوریں کھانا اور دودھ پینا۔

مَسْجَعٌ (س) وَمَسْجَعٌ (ك)
مَسْجَعَةٌ: مَسْجَعٌ کرنا۔ بے شرم ہونا۔
مَسْجَعَةٌ مَسْجَعَةٌ: باہم مَسْجَعٌ کرنا۔

مَسْجَعٌ مَسْجَعًا: مجبور دودھ ملا ہوا کھانا۔
امْتَجَعُ الفَصِيلُ: اُونٹ کے بچے کو برتن سے
دودھ پلانا۔

تَمَسَّجَعًا: باہم مَسْجَعٌ کرنا۔
المَسْجَعُ والمَسْجَعُ والمَسْجَعَةُ: جاہل۔ بے
وقوف۔ المَسْجَعُ: مَسْجَعٌ کرنے والا۔

المَسْجَعَةُ والمَسْجَعَةُ والمَسْجَعَةُ والمَسْجَعَةُ:
مَسْجَعٌ کرنے والی بے حیا عورت۔

المُسْجَعَةُ والمُسْجَعَةُ: جاہل عورت۔

المَسْجَاعُ والمَسْجَاعَةُ والمَسْجَاعَةُ: مَسْجَعٌ
کرنے والا۔ بے حیا۔

المَسْجَعُ: مجبور دودھ ملا ہوا کھانا۔
المَسْجَاعَةُ: مجبور دودھ ملے ہوئے کھانے کا
بقیہ۔

مَسْجَلَتْ (ن) مَسْجَلًا وَمَسْجُولًا
وَمَسْجَلَتْ (س) مَسْجَلًا وَمَسْجَلَتْ يَذُو: کام
کرنے سے آبلہ پڑنا۔ (عوام بَقِيَّتْ يَذُو)
کہتے ہیں۔ امْجَلُ العَمَلُ يَذُو: آبلہ ڈالنا۔

تَمَسَّجَلُ زَائِلَةٌ فَيَمُوتُ دَوْمًا: خون پیپ سے
بھرتا۔

المَسْجَلُ: فا۔ پہاڑ کے دامن اور وادی کا
پانی۔
المَسْجَلُ: مِص۔ آبلہ۔

المَسْجَلَةُ: آبلہ مَسْجَلٌ وَمَسْجَلٌ (عوام
يَقْبُوْقَةٌ کہتے ہیں)

مَسْجَمِجُ الكِتَابِ: بے نقطہ اور بے اعراب
کے لکھنا۔ مَسْجَمِجٌ خَلِيْفَةٌ: صاف نہ بیان
کرنا۔

المَسْجَمِجُ: ڈھیلا ڈھالا۔ بہت اور موٹے
گوشت والا۔
مَسْجَمِجٌ (ن) مَسْجَمِجًا. المَسْجَمِجُ: موٹا اور سخت
ہونا۔ (..... مَسْجَمِجًا وَمَسْجَمِجَةٌ): مَسْجَمِجٌ
کرنا اور بے حیا ہونا۔ صفت مَسْجَمِجٌ مَسْجَمِجٌ
مَسْجَمِجٌ۔

تَمَسَّجَمِجٌ: باہم مَسْجَمِجٌ کرنا۔
تَمَسَّجَمِجٌ: جھگڑ مَسْجَمِجٌ کرنا۔ مَسْجَمِجٌ کرنے
والے کا سائل کرنا۔ کہا جاتا ہے "تَمَسَّجَمِجٌ
فِي كَلَامِهِ" اس نے اپنی گفتگو میں مَسْجَمِجٌ کیا۔

المَسْجَمِجُ: بہت مَسْجَمِجٌ کرنے والا۔ بہت کافی
کہا جاتا ہے "فَسَاءَ مَسْجَمِجٌ" کافی اور بہت
پانی۔

المَسْجَمِجُ: مفت۔ کہا جاتا ہے "اِخَذَهُ اوْفَعَلَهُ
مَسْجَمِجًا" اس نے مفت لیا یا کیا "وَهَذَا المَسْجَمِجُ
لَكَ مَسْجَمِجًا" یہ چیز تمہارے لئے مفت
ہے۔

المَسْجَمِجُ: مَسْجَمِجًا الرُّجُلُ: جھگڑنا۔
مَسْجَمِجَةٌ مَسْجَمِجًا وَمَسْجَمِجَةٌ مَسْجَمِجًا: مال سول
کرنا۔

المَسْجَمِجُ: بڑا جھوٹا۔
المَسْجَمِجَةُ: مَسْجَمِجٌ کرنا۔

يُؤَزَّعُ مَسْجَانًا وَلَا يَبِيحُ: مفت لقمیم کیا جائے

بیچا نہ جائے۔
طَرِيْقٌ مَسْجَمِجٌ: لمبارست۔

المَسْجَمِجُ: اُونٹ جو باوجود بہت سختی ہونے
کے حاملہ نہ ہو۔
المَسْجَمِجُونَ: مرہٹ۔ بڑے ڈول کی چرخی۔
زمانہ۔ مَسْجَمِجِينَ۔

مَسْجَعٌ (ف ن) مَسْجَعًا وَمَسْجَعًا وَمَسْجَعًا
وَمَسْجَعَةٌ وَأَمْسَحُ القُوبُ: کپڑے کا پرانا
ہونا۔ الأَنْسَرُ: نشان کا مَسْجَعًا..... الدَّارُ: گھر
کا بے نشان ہونا۔

المَسْجَعُ والمَسْجَعُ: پرانا کپڑا۔
المَسْجَعُ: خالص (..... والمَسْجَعُ): اوند کی
زردی۔

المَسْجَعُ: مَسْجَعٌ بھوک۔
الامْتَسْجَعُ: موٹا۔

المَسْجَعُ: بڑا جھوٹا۔ صرف باتوں سے خوش
کرنے والا۔

مَسْجَعٌ (ك) مَسْجَعَةٌ اليَوْمِ: دن کا گرم
ہونا۔

مَسْجَعٌ (ف) مَسْجَعًا فَلَاتَا: غصبتا کرنا۔
المَسْجَعُ: گرم دن۔ ہر چیز کا سخت۔ غصبتا۔
تیز خاطر۔ خالص: کہا جاتا ہے "هُوَ عَرَبِيٌّ
مَسْجَعٌ بَسْخَتٌ" وہ خالص عربی ہے مَسْجَعٌ
مَسْجَعًا وَمَسْجَعًا۔

مَسْجَعٌ (ف) مَسْجَعًا الرُّجُلُ: تیز چلنا۔
المَسْجَعُ والمَسْجَعُ: کوزی یا گوشت چھیننا۔
المَسْجَعُ: دودھ پلانا۔ الجِلْدُ: کھال کو تیز
کرنے کے لئے مانا۔ المَسْجَعُ: کتھن میں
ڈول کو پلانا۔ شَيْئًا عَنِ الشَّيْءِ: بے چارہ
المَسْجَعُ: غبار آرا۔ جانا۔
المَسْجَعَةُ: جماع کرنا۔

مَسْجَعٌ (س) مَسْجَعًا الرُّجُلُ: جھگڑنا۔
مَسْجَعَةٌ مَسْجَعًا وَمَسْجَعَةٌ مَسْجَعًا: مال سول
کرنا۔

المَسْجَعُ: بڑا جھوٹا۔
المَسْجَعَةُ: مَسْجَعٌ کرنا۔

المَسْجَعَةُ: مَسْجَعٌ کرنے والی بے حیا عورت۔

المَسْجَعَةُ: مَسْجَعٌ کرنے والی بے حیا عورت۔

سنان مجتبیٰ: باریک و تیز بھالا۔
 الفاجق: فاجق الصیف: سخت گرمی یوم
 فاجق: سخت گرم دن۔
 الامتخق: بے برکت۔
 الممتحقہ: باعث بے برکتی۔

مخک (ف) مخکھا و مخجک (س)
 مخکھا و امتخک و تمخک الرجل:
 جھگڑا میں جھگڑا کرنا۔ بھاؤ کرنے میں
 جھگڑنا۔ صفت مخجک و مخجک
 و مخکھا۔

امتخک الخصوم فلانا: غصبتا کرنا۔
 مٹاخک مٹاخکة فلانا: جھگڑا کرنا۔
 تمناخک الخصمان: باہم جھگڑا کرنا۔
 اللتمتخک: بداخلاق جھگڑا کرنا۔

مجل (س) و منجل (ف) مغلأ
 و منجلأ و منجل (ک) مغلأ المكان:
 قط زدہ ہونا۔ صفت ماجل۔

مجل (ف) و منجل (س)
 و منجل (ک) مغلأ و مغلأ به إلى
 الأیسر: پھل خوری کرنا۔ صفت ماجل
 و منجل و منجل۔ منجل بضاجبه: بہتان
 رکھنا۔

مجل فلانا: مضبوط کرنا۔ الشی: لہبا
 کرنا۔

مخاله مغلأ و مضاخلة: مکر کرنا۔ قوت
 معلوم کرنے کیلئے باہم زور آزمائی کرنا۔
 دشمنی کرنا۔ ہانا۔ جھگڑا کرنا۔

امجل المكان: قط زدہ ہونا۔ صفت
 منجل و الأرض منجل و منجل: قط
 زدہ زمین۔ المنطر: بارش رکنا۔
 القوم: قط زدہ ہونا۔ صفت منجلون۔
 اللہ الأرض: قط زدہ کرنا۔

تمجل الشی و لہ: جیل کرنا۔ لفلان
 حقة: حق حاصل کرنے کی تدبیر کرنا۔
 الذراهم: پرکھنا۔

تمخال القوم: باہم کید و مکر کرنا۔ تمخال
 یهم الذار: دور ہونا۔

المخجل: فریب۔ مکر۔ غبار۔ شدت۔ قط۔
 بارش کا نہ ہونا اور زمین کا خشک ہونا۔ سخت
 بھوک۔ ج منجل و امتخال کہا جاتا ہے
 زجل منجل: غیر مفید۔

المساجل: فاج۔ جھگڑا۔ کہا جاتا ہے "زائقة
 مساجل" میں نے اس کو متغیر اللون دیکھا۔ کہا
 جاتا ہے "أرض مساجل و منجل و منجلة
 و منجل و منجلة": قط زدہ زمین اور جمع
 کے لئے أرضون منجل و منجل۔

المخال: بڑی چرخی۔ ایک قسم کا زیور۔
 المخال: کید۔ مکر۔ جھگڑا۔ عذاب۔ شدت
 وقوت۔ ہلاک ہونا۔ ہلاک کرنا۔ جیلوں سے
 کسی مقصد کو طلب کرنا۔ تدبیر۔ دشمنی۔

المخاللة: بڑی چرخی۔ اونٹ وغیرہ کی
 ریڑھ کی ہڈی کا ایک ممبرہ۔ نکڑی جس پر
 کھڑے ہو کر کھل کریں۔ ج مخال اور
 مخال کی جمع منجل اور کہا جاتا ہے
 "لامخاللة" یعنی ضرور ولابدی۔

المجل: وہ شخص جو دھکا مارا جائے یہاں تک
 کہ تھک جائے۔ اور کہا جاتا ہے "فججل
 منجل" یعنی جیلہ گر۔ مکار۔

المخال: مکار۔ دعا باز۔ شیطان۔
 أرض منجل و منجل: قط زدہ زمین۔

المتمخال: بہت لمبا ترنگا مرد یا اونٹ کہا جاتا
 ہے "زجل متمخال" بہت لمبا ترنگا مرد۔
 "وزائقة متمخال" یعنی میں نے اس کو دیکھا
 کساں کے بدن کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ فلاسفة
 منجل: دو کنارے والا میدان۔ فلسفة
 متمخال: ایسا ترنگا جو مٹنے میں نہ آئے۔

أرض منجل: قط زدہ زمین۔
 المنجل: دودھ کا مکھنہ۔

مخن (ف) مخنا فلانا: آزمانا۔
 عشرین سوطا: کوڑے مارنا۔ القصة:
 چاندی کو تانہ دے کر صاف کرنا۔ اسم
 الممخنة: ہے۔ القوب: کپڑے کو پہن کر
 پرانا کرنا۔ فلانا منیا: دینا۔ البئر:
 کنوئیں کی صفائی کرنا۔ الناقاة: اونٹنی کو چلا

کر تھکانا۔ الخاریة: جماع کرنا۔
 ومخن الاذینم: چڑے کو نرم کرنا۔
 امتخن الشی: آزمائش کرنا۔ القول:
 غور کرنا۔ سوچنا۔ القصة: چاندی کو تانہ
 دے کر صاف کرنا۔

المخن: منس۔ ہر چیز کا نرم۔ تمام دن چلنے
 یا اور کسی کام سے تھکن۔ کہا جاتا ہے "مکان
 فسی مخن" وہ مشقت میں تھا۔ المخن:
 عطیہ۔

الممخنة: آزمائش۔ ج مخن۔
 متخا یمخو و یمخی متخا و یمخی الشی:
 مٹانا۔ صفت مفعول۔ ممخی و ممخو کہا
 جاتا ہے "مخبت الریح الشحاب
 و الشبخ اللیل" ہوائے بادل کو پراگندہ کر
 دیا اور صبح نے رات کو زائل کر دیا۔

مخا یمخو و یمخی متخا و یمخی
 و امتخی الشی: مٹانا (امتخی امتخی میں
 ایک ضعیف لغت ہے)

تمخی تمخیا من القوم: معافی کی
 درخواست کرنا۔

المخو: بھس۔ چاند کا سیاہ داغ۔

المخوة: محاکا کا اسم مرہ۔ شرم و عار۔ بارش
 اس لئے کہ زمین کی خشکی کو دور کر دیتی ہے۔
 کہا جاتا ہے "صابت الأرض مخوة"
 زمین پر بارش ہوئی اور کہا جاتا ہے "تھبت
 مخوة" بغیر لام کے اور ضمہ کے ساتھ۔ یعنی
 یاد شمالی چلی۔

الممخاة: میل صاف کرنے کا پتھر۔
 ممخاة یمخاة و یمخیه ممخیا مٹانا (لغت
 ہے مخا و می میں)

مخج (ف) مخجنا و تمخج و تمناخج
 المثلو او بالمثلو: پھرنے کے لئے ڈول
 بلانا۔ مخج الخاریة: جماع کرنا۔

تمخج الماء: حرکت دینا۔
 مخج و تمخج و امتخج العظم: ہڈی سے
 گودا نکالنا۔
 امتخ العظم: گودے والی ہونا۔ امتخبت

<p>گمبہالی کرنا الشیف: تلوار سونتنا المَخاط: ریٹ صاف کرنا الصبی: بچے کی ریٹ صاف کرنا ہ بیدہ: مارنا (..... مَخَطًا وَمَخُوطًا) الشہم: تیر کا پار ہونا۔ صفت مَخاط۔ مَخَطُ الْوَلَد: بچے کی ناک سے ریٹ صاف کرنا۔ امْخَطُ الشَّهْم: تیر کو پار کرنا۔ امْتَخَطُ الشَّيْ: چھین لینا۔ اچک لینا۔ الشیف: تلوار سونتنا۔ امْتَخَطُ وَتَمَخَطُ: ریٹ صاف کرنا۔ و تَمَخَطُ الرَّجُلُ: چلنے میں لاکھڑانا۔ المَخَط: مہم۔ راکھ۔ چھوٹا کپڑا۔ المَخاط: ریٹ۔ وہ چیز جو دو پہر کے وقت میں کھڑی کے چالے کی مانند اوپر سے نیچے آتی ہوئی معلوم ہوتی ہے اس کو مَخاطُ الشَّمس ولغاب الشَّمس بھی کہتے ہیں۔ المَخاطی: ریٹ والا۔ المَخَط: فاض سردار۔ ج مَخاط۔ المَخَطَةُ: مَخَط: کا اسم مرہ۔ ایک مرتبہ میں جتنی ریٹ صاف کی جائے۔ المخل عند المولدين: لوہے وغیرہ کا آلہ جس سے بڑے بڑے پتھر اٹھائے جائیں یا توڑے جائیں۔ ج امخال و مخول۔ الماخيل: بھاگنے والا۔ مَخْمَخُه: گودا نکالنا۔ مَخَن (ن) مَخَنًا: رونا البئر: کنوئیں سے پانی نکالنا العود: کھڑی چیلانا التجارية: جماع کرنا۔ مَخَن (ن) مَخَنًا وَمَخُونًا: لہا ہونا۔ صفت مَخَنٌ وَمَخَنٌ مَوْتٌ مَخَنَةٌ وَمَخَنَةٌ. المِخَن: لہا مرد۔ المِخَنَةُ: المِخَن: کا مؤنث۔ گھر کا مہن۔ مَخِي الرَّجُلُ عَنِ الْأَمْرِ: الگ کر دینا۔ دور کر دینا۔ امْخَى امْخَاءً وَ امْخَى امْخَاءً وَتَمَخَى</p>	<p>مَخْرَقٌ مَخْرَقَةٌ: جموت کھڑنا۔ مِخْرَاقٌ: لڑپا۔ ج مَخْرَاقٌ. تَمَخَّسَ تَمَخَّسًا: بہت ہلنا۔ مَخَضٌ (ن ف ض) مَخَضًا اللَّبَنُ: دودھ ہلانا۔ کھن نکالنا۔ صفت مفعول مَخَضٌ وَمَمْخُوضٌ. الشئ: بہت ہلانا الزائی: خوب غور کرنا بالدلو: بھرنے کے لئے ڈول ہلانا البئر بالدلو: کنوئیں میں سے ڈول سے بہت پانی نکالنا۔ مَخَضَتْ (س) مَخَاضًا وَمَخَاضًا وَمَخَضَتْ وَمَخَضَتْ وَتَمَخَضَتْ الْأَخَامِلُ: دروزہ میں بتلا ہونا۔ صفت ماخض. ج مَخَضٌ وَ مَوَاضٍ. امْخَضُ اللَّبَنُ: دودھ کے بلوئے جانے کا وقت قریب ہونا الرَّجُلُ: قریب الولادة او جنین کا مالک ہونا۔ امْتَخَضَ وَتَمَخَضَ اللَّبَنُ: کھن نکالنا ہوا ہونا۔ کھن نکالنے کے برتن میں ہلنا الْوَلَدُ: بچے کا پیٹ میں حرکت کرنا۔ تَمَخَضَتِ السَّمَاءُ: برتنے کے قریب ہونا۔ تَمَخَضَ الذَّهْرُ بِالْفِتْنَةِ: تنظا ہر کرنا اور کہا جاتا ہے "تَمَخَضَتِ اللَّيْلَةُ عَنِ صَبَاحِ سَوَاءٍ" رات ختم ہوگئی اور اس کے بعد بڑی صبح آئی۔ اسْتَمَخَضَ اللَّبَنُ: دیر میں جھنے والا ہونا۔ اسْتَمَخَضَتِ الْأَخَامِلُ بَوْلَهَا: حاملہ کا درد زہ میں بتلا ہونا۔ المَخاض: دروزہ۔ الإمخاض: دودھ جب تک کھن نکالنے کے برتن میں رہے۔ المِخَضُ وَ المِخَضَةُ: مٹکیزہ۔ کھن نکالنے کا برتن۔ ج مَخَاضٌ. مَخَطٌ (ن) مَخَطًا الشئ: کھنچ کر لہا کرنا۔ الجمَلُ به: تیز دوڑنا الرَّجُلُ هِيَ الْأَرْضُ: تیز چلنا الْوَلَدُ: لڑکے کا باپ کے مشابہ ہونا۔ غَسْرُ فَلَانٍ: پودے میں پانی دینا اور</p>	<p>الشاة: موٹی ہونا العود: کھڑی کا تر ہونا الزرع: پُر مخر ہونا۔ المَخُ: ہڈی کا گودا۔ بھیجا۔ آکھ کی چربی۔ خالص۔ ج مِخَاخٌ وَمِخَاخَةٌ: کہا جاتا ہے "لَا أَرَى لِأَمْرِكِ مِخَا" میں تمہارے معاملہ میں کوئی خیر نہیں دیکھتا ہوں۔ وَالْمِخَاخُ: گودے کا ٹکڑا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا لَأَمْرِكِ مِخَاخٌ وَمِخَاخَةٌ الْقَوْمُ" یعنی یہ لوگ قوم کے افضل ہیں۔ المَخ: نرم۔ المِخَاخَةُ: ہڈی کا گودا جو چوٹے سے مزہ میں آئے۔ المِخِيخُ: گودے والی ہڈی۔ شاة مِخِيخَةٌ: گودے والی یعنی موٹی کبری۔ ج مِخَانِخٌ. ایل مِخَانِخٌ: عمدہ اونٹ۔ کہا جاتا ہے "لَدِ الْبِئْرِ مِخَانِخٌ" یعنی زبان آدراور قادر الکلام ہے۔ مَخْرَتٌ (ن) مَخْرًا وَمَخْرُوزًا الشَّيْبَةُ: آواز کے ساتھ پانی کو چرنا۔ مَخْرُ الْأَرْضِ: زمین کو کھیتی کے لئے کھودنا۔ اچھی کھیتی کے لئے پانی دینا السابغ: ہاتھوں سے پانی کو پھاڑنا۔ السَّبْبُ الشاة: بھیڑیے کا کبری کا پیٹ پھاڑنا۔ مَخْرٌ (ف) مَخْرٌ الْبَيْتِ: عمدہ سامان لے لینا۔ امْتَخَرَ وَتَمَخَرَ وَاسْتَمَخَرَ الْوَيْخُ: ہوا کی طرف پیٹھ کرنا۔ امْتَخَرَ الْعَظْمُ: ہڈی سے گودا نکالنا الشئ: اختیار کرنا۔ المَخْرُ: مہم بنات مَخْرُ: پتلے سفید بادل۔ المِخْرَةُ: مَخْرُ: کا اسم مرہ۔ منہ کی بدبو (.....) وَ المِخْرَةُ وَ المِخْرَةُ: پستہ کی ہوئی چیز۔ المِخْرَةُ: مَخْرُ: کا مؤنث۔ کشتی۔ ج مَوَاجِرُ. المِخْرُ: ہدکاروں کی مجلس۔ ہدکاروں کا اڈا۔ ہدکاری کے اڈے کا متولی۔ ج مَوَاجِرُ وَ مَوَاجِرُ.</p>
---	---	--

کی ترکیب و قوام ہو۔ السَّادَةُ الْأُولَى: وہ جس سے کسی چیز کا حصول بالقوہ ہو۔ ج مَوَادُّ. مَوَادُّ مَوَادُّ اللَّغَةِ: الفاظ لغت۔ مَوَادُّ الْعِلْمِ: مباحث علم۔

السَّادَةُ الْمَوَادِّ: منسوب إلى المَوَادِّ: وہ ہے جو اس بات کا قائل ہو کہ صرف مادہ ہی کا وجود ہے۔

الأمثلة: تانا۔

الأمثلة: عادت۔

السَّادَةُ الْمَدِينَةُ: کھینچا ہوا۔ لہذا کہا جاتا ہے "فَدَّ مَدِينَةً" لہذا۔ "فَلَانٌ مَدِينَةُ الْقَامَةِ" فلاں لہجے قد کا ہے۔ مَوَثْمَثٌ مَدِينَةٌ: مَدِينَةٌ مَدِينَةٌ: طویل مدت۔ ج مَدِينَةٌ: چارہ۔ پانی میں جو یا آٹا یا تیل ملا ہوا۔ اوزان شعر میں سے ایک وزن۔

السَّادَةُ الْمَدِينَةُ: تھوڑی سی مدت (مدت کی تغیر)۔ السَّادَةُ: مصدر۔ مہمی۔ چیز کے کھینچنے کی جگہ۔

السَّادَةُ: اوزان شعر میں ایک وزن جس کو بعض متاخرین نے استعمال کیا ہے۔ وزن اس کا قائلن قاعلان چار مرتبہ ہے۔

السَّادَةُ الْمَدِينَةُ: مفع۔ مَالٌ مَدِينَةٌ: بہت مال۔ السَّادَةُ الْمَدِينَةُ فِي عِلْمِ الصَّرْفِ: ہر وہ اسم معرب جس کے آخر میں ہمزہ ہو اور اس سے پہلے الف زائد ہو جیسے صحراء۔

مَذْحَجَةٌ (ف) مَذْحَجَةٌ وَمَذْحَجَةٌ: تعریف کرتا۔ مَذْحَجَةٌ: تعریف کرتا۔

تَمَذَّجٌ: غیر واقعی اوصاف پر فخر کرتا۔ خود بخود تعریف کرتا۔ السَّرْجُلُ: تعریف کرتا۔ إلی الناس: اپنی تعریف چاہتا۔

إفصاح فلاناً: تعریف کرتا (..... وإفصاح): وسیع ہونا۔

تَمَذَّجَ الْقَوْمَ: ایک دوسرے کی تعریف کرتا۔

السَّادَةُ الْمَدِينَةُ: اسم ہے مذحج سے۔ تعریف ج مذحج۔ السَّادَةُ الْمَدِينَةُ: والامثلة: ج مَذْحَجٌ: تعریف۔

السَّادَةُ الْمَدِينَةُ: کھینچنا۔ إفصاحهم السَّادَةُ: طویل ہونا۔ إلی مَشِيئِهِ: ناز و انداز سے چلنا۔ إلی السَّادَةُ: دیکھنا۔ النَّهَارُ: دن کا آدھا ہونا۔

إِسْتَمَدَ الْقَوْمَ الْأَمِيرَ عَلَى الْعَدُوِّ: مدد طلب کرتا۔ مِّنَ الدَّوَاةِ: روشنائی لینا۔

السَّمْدُ: مہس۔ سیلاب۔ ج مَسْمُودٌ: مُسْتَهْبِئِي کہا جاتا ہے "بِسْبَبِ وَبِئْتَهُ قَدْرَ مَدِّ النَّصْرِ" میرے اور اس کے درمیان منجانبے نظر کی مقدار فاصلہ ہے۔ دن کا بلند ہونا کہا جاتا ہے "أَتَيْتُهُ مَدَّ النَّهَارِ وَمَدَّ الضُّحَى" میں اس کے پاس دن چڑھنے کے وقت آیا۔ مَدَّ النَّهَارُ: دریا کا چڑھنا۔

السَّمْدُ وَالْمَدَّةُ: حرف کو کھینچ کر پڑھنے کی علامت۔

السَّمْدُ: ایک پیمانہ جس کی مقدار اہل عراق کے نزدیک دو رطل اور اہل حجاز کے نزدیک ایک اور تہائی رطل ہے۔

السَّمْدَةُ: مذ کا اسم مرہ۔ قلم کا ایک مرتبہ دو دوات میں ڈالنا۔

السَّمْدَةُ: زمانہ کا حصہ۔ قلیل ہو یا کثیر۔ غایت زمانی یا مکانی کہا جاتا ہے "لِيَسُدَّهُ الْأُمَّةُ وَالْأَرْضُ مَدَّةٌ" قلم کا ایک ڈوبا۔ ج مَدَّدَ: المَدَّةُ: مذ کا اسم نوع۔ پیپ۔

المَدَّدُ: مدد۔ فریادری کہا جاتا ہے "أَمَدَدْتُهُ بِمَدِّدٍ" میں نے اس کو قوت پہنچائی میں نے اس کی اعانت کی۔

السَّادَةُ وَالْإِبْدَانُ: کھاری یا بہت سخت کھاری پانی۔ وہ زمین جہاں سے پانی رے۔

السَّادَةُ: مہس۔ روشنائی۔ گوہر یا کھاد۔ چراغ میں جو تیل ڈالا جائے۔ مثال د طریقہ۔ تم کہتے ہو "هَمْ عَلَى مِدَادٍ وَاجِدٌ" وہ ایک مثال پر ہیں "سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ السَّمَوَاتِ" یعنی آسمان کی تعداد کے مطابق۔

السَّادَةُ الْمَدَّةُ: کاموٹ۔ جس سے کسی چیز

وإفصاحي إليه: عذر خواہی کرتا۔ مِّنْهُ: بجزار ہونا۔ وَتَمَسَّحِي الْعَظْمَ: ہڈی سے گودا نکالنا۔

مَدَّ (ن) مَدَّ السَّادَةُ وَالسَّادَةُ: پھیلاتا کھینچتا۔ اللُّهُ عَصْرَةٌ: معرطویل کرتا۔ مِّنَ السَّادَةِ: قلم میں روشنائی لینا۔ النَّهْرُ: البَحْرُ: دریا یا سمندر کا چڑھنا۔ پانی زیادہ کرنا (لازم و متحدی) کہا جاتا ہے "قَلَّ مَاءٌ رَكِبْنَا فَمَدَّتْهَا رَكْبَةً أُخْرَى" ہمارے کتوں میں کا پانی کم ہو گیا تو دوسرے کتوں میں نے اس کے پانی کو زیادہ کر دیا "وَهَذَا السَّادَةُ السَّادَةُ فِي وَادِي كَذَا" یہ وادی دوسری وادی کے پانی کو زیادہ کرتی ہے "وَمَدَّ نَظْرَهُ إِلَيْهِ" اس نے اس کی طرف بلند نگاہ ڈالی۔ مَدَّ الْأَرْضَ: کھاد یا دوسری مٹی ڈالنا۔ السَّادَةُ: کھینچ کر پڑھنا۔

السَّادَةُ: پانی میں جو یا آٹا یا تیل ملا کر پلانا۔ السَّادَةُ: چراغ میں تیل ڈالنا۔ السَّادَةُ: مَدَّ وَالْمَدَّةُ: مَدَّ وَالْمَدَّةُ: مہلت دینا۔ اعانت کرتا۔ فریادری کرتا۔ مَدَّ فِي غِيهِ: گمراہی میں زیادتی کرتا۔

السَّادَةُ: فوج کی مدد کرتا۔ النَّهَارُ: دن کا چڑھنا۔ بلند ہونا۔ السَّادَةُ: روشنائی ڈالنا۔ دوات ہونا۔ روشنائی یا پانی زیادہ کرنا اور ایسا ہی "مَدَّ الْقَلَمَ" قلم میں روشنائی لگانا۔

أَمَدَّ فِي مَشِيئِهِ: ناز و انداز سے چلنا۔ أَمَدَّهُ اللَّهُ فِي الْخَيْرِ: زیادہ کرنا۔ أَجَلَةٌ: طویل کرنا اور مَوَازِرُ كَرْنَا: فلاننا بھال دینا۔

السَّادَةُ: قلم میں ایک ڈوبا دینا۔ السَّادَةُ: بانی میں جو یا آٹا یا تیل ملا کر پکانا۔ وَأَمَدَّ النَّهْرُ: زخم میں پیپ ہونا۔ مَدَّ السَّادَةُ: پھیلاتا۔

مَدَّ مَدَّ مَدَّ: کھینچنا۔ مَدَّ مَدَّ مَدَّ: نال منول کرنا۔ مَدَّ السَّادَةُ: ایک دوسرے کے کپڑے کو کھینچنا۔

تَمَذَّجَ السَّادَةُ: باہم مل کر کھینچنا۔ تَمَذَّجَ وَالْمَدَّةُ: پھیلاتا۔ اَمَدَّ أَلِي لِيَأْتِيَ تَمَذَّجُوا

السَّادَةُ الْمَدَّةُ: کاموٹ۔ جس سے کسی چیز

المصداح: الترعین۔

مذخ (ف) مذخا: بڑا ہونا..... فلانا: پوری مدد کرنا۔

مذخہ: خیر یا شر میں مدد کرنا۔

تمذخ: تکبیر کرنا۔ تمذخت الابل: اونٹ کا پر گوشت اور چربی والا ہونا..... الناقۃ: اونٹنی کا بل کھاتی ہوئی چلنا۔

تمذخ و امتذخ علیہ: ظلم کرنا۔ تمذخ عنہ: سستی و کاہلی کرنا۔

المذخ والمذیخ والمذیخ: معظم و معزز۔

المذوخ والممصاخ: جلد باز۔

مذز (ن) مذزا ومذز المکان: مٹی سے

لیپنا..... المحوض: حوض کے پتھروں کی

جمہری کو مٹی سے بند کرنا..... فمذز: بیٹ

کرنا۔

مذز (س) مذزا: بڑے پیٹ والا ہونا۔

تمذز: لیپا جانا۔ آدوہ ہونا۔

امذز: الصدر: ڈھیلا لینا۔

المذز: مصل۔ مٹی کا ڈھیلا۔ بغیر ریت کا

کچھڑ۔ شہر اور دیہات اس لئے کہ اکثر ان

کی عمارتیں مٹی کی ہوتی ہیں۔

المذزۃ: مٹی کا ایک ڈھیلا۔ مذزۃ الرجل:

مرد کا گھر کہا جاتا ہے فلان سید مذزۃہ:

فلاں اپنے شہر کا سردار ہے۔

المذری: شہر کا رہنے والا۔

الامذر: بڑے پیٹ والا۔ بہت پانچانہ

کرنے والا جو روکنے سے عاجز ہو۔ پھولے

ہوئے پھولوں والا جس کے دونوں پہلو

خاک آلود ہو گئے ہوں۔ گرد آلود۔

المذراء: بڑے پیٹ والی۔ بجو۔ بنو

مذراء: شہر والے۔

مکان مذیر ومذور: لپٹی ہوئی جگہ۔

المصدرة والمصدرة: جہاں سے مٹی کے

ڈھیلے لئے جائیں۔

ابل مصدرة: موٹے اونٹ۔

مذس (ن) مذسا الجلد ونحوہ: کھال

وغیرہ کو مانا۔

مذشت (س) مذشا عنینہ: بھوک وغیرہ

سے چندھیانا..... یذۃ: ڈھیلے پٹوں والا اور کم گوشت ہونا۔ صفت أمذش مؤنث

مذشاء ج مذش.

مذش (ن) مذشا. من الطعام: تھوڑا سا

کھانا..... لفلان من العطاء: کم کرنا۔

مذش وأمذش: دینا۔

رجل مذاش. الید: چور۔

المذش: مصل۔ تھوڑا عظیم۔

المذش: مصل۔ گرمی یا بھوک کی وجہ سے

چندھاپین۔ ہاتھ کے پٹوں کا ڈھیلا پن اور

گوشت کی کمی۔ پاؤں کی کچھن۔ عورت کے

پستان میں گوشت کی کمی۔ چہرہ کی سرخی اور

تختی۔ بے وقوفی اور کہا جاتا ہے "غایہ مذش

او غایہ مذشۃ" اس کو کوئی مرض نہیں۔

المذش: بے وقوف۔

المذعة: ناریل کا خول جس میں سے مغز

نکال لیا گیا ہو۔

المذعی: نسب میں تہم۔

المذیع: سمندر کی چھوٹی چھلیاں۔

مذق (ن) مذقا الصخرة: چٹان توڑنا۔

المذقس: ریشم۔

تمذل بالمذیل: سر پر رومال لپیٹنا یا عامہ

باندھنا۔

المذلل: کمینہ۔ ہما ہوا دودھ۔

المذلل: مرد کم گوشت لاغر بدن۔

المذلوج: بازو بند مدمد۔ بھاگنا۔

مذن (ن) مذنونا بالمکان: اقامت کرنا

(غیر مستعمل فعل ہے)..... المذینۃ: شہر میں

آنا۔

مذن. المذاین: شہر آباد کرنا۔

تمذن: شائستہ و مہذب ہونا۔

تمذین: ناز پروردہ ہونا۔

المذینۃ: شہر۔ قصبہ۔ رج مذن ومذن

ومذاین.

المذینۃ: مدینہ منورہ جس کا نام نبی کریم

ﷺ کی ہجرت سے پہلے یشرب تھا۔ مذینۃ

السلام: بغداد۔

المذاین: بغداد کے قریب ایک شہر کا نام جس میں کسری کا محل تھا۔ بڑے ہونے کی

وجہ سے جمع کا لفظ اطلاق کیا گیا اور نسبت

کے لئے مذاینی.

المذین: شیر۔

المذان: ایک بت کا نام۔

مذہ (ف) مذہا: تعریف کرنا۔ صفت

بادہ۔ ج مذہ.

تمذۃ الرجل: تعریف کرنا۔ خود بخود تعریف

کرنا۔

مذای مضافة فلانا: مہلت دینا۔ کہا جاتا

ہے "فلان لا یسأذیہ احد" فلاں کا غایت

تک کوئی مقابلہ نہیں کرتا۔

أمذی اذاء فلانا: مہلت دینا۔ الرجل:

بڑی عمر والا ہونا۔ بہت دودھ پینا۔

تمذی. فی غیہ: دیر تک رہنا اور اصرار کرنا

..... فی الامر: انتہا کو پہنچنا..... بنا السفر:

سفر کا طویل ہونا۔

المذی والمذیۃ والمیذاء: غایت انتہا۔

کہا جاتا ہے "بلغ مذی الحیاة ومذیہا

ویداءہا" یعنی زندگی کی انتہا کو پہنچ گیا

و"ذاری میذاء ذارہ" میرا گھر اس کے

گھر کے مقابل ہے "مذیۃ القوس" کمان کا

وسط۔

المذیۃ والمذیۃ والمذیۃ: بڑی چھری۔ رج

مذی ومذی ومذیات ومذیات.

المذی: شام و مصر کا ایک پیمانہ جس میں ۱۹

صاع آتے ہیں۔ رج امداء.

المذی: جو بڑے حوض کا ٹکڑا ہو یا پانی جو گندہ

ہو گیا ہو۔ رج أمذیۃ.

الأمذی: اسم تفضیل کہا جاتا ہے "فلان

أمذی العرب" فلاں عربوں میں سے بہت

زیادہ معزز ہے۔

مذ: دیکھو مذن.

مذج (س) مذجا وتمذج الشی: وسیع

ہونا اور پھولنا۔ تمذج الإناء: برتن کا بھرنا

..... البَطِيخُ: خر بوڑو کا پختہ ہونا۔

مَذَجٌ تَمْدِيخُ الشَّيْءِ: وسیع کرنا۔

مَذِخ (س) مَذَخًا: رگڑ کھانے یا پسینہ آنے سے رانوں یا خسیوں یا سریٹوں میں سوزش ہونا۔ صفت اَمَذَحَ.

تَمَذَّخَ الشَّيْءَ: چوسنا۔

الامْتَذَحُ: بدبودار۔

المَذْحُ: مصل۔ جنگلی انار کے پھول کا شہد۔

تَمَذَّحَ الرَّجُلُ: چوسنا۔

المَذْحُ: جنگلی انار کے پھول کا شہد۔

مَبْرُوثٌ (س) مَبْرُوثًا. البَيْضَةُ: انڈے کا گندہ ہونا۔ صفت مَبْرُوثَةٌ عوام "مَبْرُوثَاتُ البَيْضَةُ" اور صفت "مَبْرُوثَةٌ" کہتے ہیں۔

مَبْرُوثٌ نَفْسُهُ او مَعْدَنُهُ: جی مثلاً نایا معدہ

بگڑنا..... الرَّجُلُ: پانی کے خزانہ کی طرف

بہت آنا جانا۔

مَذَّرَ الشَّيْءَ: پراگندہ کرنا۔ بکھیرنا۔

الْمَذْرَبَةُ المَذْجَابَةُ البَيْضَةُ: گندہ کرنا۔

تَمَذَّرَ: پراگندہ ہونا۔ بکھیرنا۔ تَمَذَّرَتِ البَيْضَةُ: انڈے کا گندہ ہونا..... المَعْدَةُ: بگڑنا..... النَّفْسُ: جی مثلاً تَمَذَّرَ اللَّبْنُ:

دودھ کا مشکیزہ میں پھٹ جانا۔ کہا جاتا ہے

"تَفَرَّقَ القَوْمُ شَمْرًا مَذَّرًا" قوم ہر طرف کو بکھری۔

المَذْرَبَةُ: گندہ۔ بگڑا ہوا۔ امْرَأَةٌ مَذْرَبَةٌ:

گندی عورت۔

الانْتِزَاعُ: پانی کے خزانہ کی طرف بہت آنے

جانے والا۔

المَذَارُ مِنَ النِّسَاءِ: چٹل خورن۔

مَذْرُوقٌ بِهِ: پھینکنا۔

مَذَعُ (ف) مَذَعًا وَمَذَعَةً يَمِينًا: قسم

کھانا۔ مَذَعَتِ المِيَاةُ: پہاڑ کی چوٹی پر بہنا

مَذَعُ القُلَانِ: خبر کا کچھ حصہ بیان کرنا اور کچھ

چھپانا..... مَذَعًا الضَّرْعُ: تھن کا آدھا

دودھ دونا۔

تَمَذَّعَ الشَّرَابُ: آہستہ آہستہ پینا۔

المَذْمُوعُ: جموت ہونا۔ بے وفا۔ ایک جگہ قائم نہ

رہنے والا۔ راز کو نہ چھپانے والا۔

مَذَقٌ (ن) مَذَقًا اللَّبْنُ: دودھ میں پانی ملانا

..... فَلَانًا وَلِفْلَانًا: پانی ملا ہوا دودھ پلانا

..... الوُؤْدُ: خالص دوسٹی نہ کرنا۔

إِمْتَذَقَ وَإِمْتَذَقَ الشَّرَابُ او اللَّبْنُ: شراب

یا دودھ کا پانی سے ملانا۔

لَبَسَ مَذِيقًا وَمَذِيقًا وَمَمْدُوقًا: پانی ملا ہوا

دودھ۔ رَجُلٌ مَذِيقٌ: ملول ورنجیدہ مرد۔

المَمْدُوقُ: غیر خالص دوسٹی کرنے والا۔

مَمْدَلٌ (ن) مَمْدَلًا وَمَمْدَلًا وَمَمْدِلٌ (ن)

مَمْدَلًا بِبِرِّهِ: زچ ہو کر بھید کو ظاہر کر دینا

..... وَمَمْدَلَتْ (ك) مَمْدَلَةٌ نَفْسُهُ

بِالشَّيْءِ: فیاضی کرنا۔ جواں مروی کرنا۔

صفت مَمْدِلٌ: کہا جاتا ہے "مَمْدِلٌ بِمَالِهِ

وَمَمْدِلٌ بِنَفْسِهِ" اس نے مال یا نفس کی

سختاوت کی۔ مَمْدِلْتُ رَجُلَهُ: پاؤں کا سن

ہونا۔

أَمْدَلُهُ: تنگ دل کرنا۔ زچ کرنا۔ أَمْدَلْتُ

رَجُلَهُ: پاؤں کا سن ہونا۔

إِمْدَلٌ إِمْدَلًا لَاحًا: سُت وڈھیلا ہونا۔

إِمْدَلْتُ رَجُلَهُ: پاؤں کا سن ہونا۔

المَمْدَلُ: مصل۔ کسی وڈھیلا پن اور کہا جاتا

ہے "فَلَانٌ مَمْدَلٌ اليَدِ او النَّفْسِ" فلاں جی و

کریم ہے۔

المَمْدَلُ: چھوٹے جسم والا۔

المَمْدِلُ والمَمْدِيلُ: بے قرار۔ زچ ہونے

والا۔ راز کو ظاہر کر دینے والا۔ مَمْدِيلٌ كِي تَجَمُّعِ

مَمْدَلِي.

المَمْدِلُ والمَمَزَلُ: وہ شخص جس کا دل کسی چیز

سے بھر جائے اور وہ اس کو چھوڑ کر دوسری

چیز کی امید لگائے کہا جاتا ہے "هُوَ مَمْدِلٌ

بِمُهْجَبِهِ" وہ اپنی روح کی سختاوت کرنے

والا۔

المَمْدَلَةُ: کھجور کی جھٹلی۔ چٹان کا گڑھا۔

المَمْمَمْدَلُ: جو بھید کے چھپانے سے زچ ہو

جائے۔ بہت بے حس پاؤں والا۔

مَمْمَمْمَمْدَلَةُ الرَّجُلِ: جموت ہونا۔

المَمْمَمْدَلُ: بہت چلانے والا۔ باتولی۔

مَوْمَثٌ مَمْمَمْدَلَةٌ.

المَمْمَمِيذُ: جموت ہونے والا۔

مَمْمَمِيذٌ مَمْمَمِيذٌ مَمْمَمِيذًا وَمَمْمَمِيذٌ القُرْسُ:

گھوڑے کو چرنے کے لئے چھوڑنا۔

مَمْمَمِيذٌ مَمْمَمِيذٌ وَمَمْمَمِيذٌ الرَّجُلُ: مڈی لگانا۔

أَمْمَمِيذٌ القُرْسُ: گھوڑے کو چرنے کے لئے

چھوڑنا۔ کہا جاتا ہے "أَمْمَمِيذٌ بَعَثَانُ قُرَيْبِكُ"

یعنی اپنے گھوڑے کی لگام کو چھوڑ دے۔

أَمْمَمِيذٌ الشَّرَابُ: زیادہ پانی ملانا۔

المَمْمَمِيذُ: پانی جو حوض کی نالی سے نکلے۔ مڈی

جو ملاعبت یا بوسہ لینے کے وقت نکلے۔

السَّمَلِيذُ: حوض میں پانی بہنے کی جگہ.....

والمَمْمَمِيذُ: مڈی جو ملاعبت یا بوسہ لینے کے

وقت نکلے۔

السَّمَاذِيَانَاتُ: پانی بہنے کی جگہ۔ یاد دہیاد اور

جو پانی بہنے کی جگہ ہو۔

المَمَامِيذِيُّ: شہد۔ لوبہ کا ہر قسم کا ہتھیار۔

السَّمَاذِيَةُ: آسانی سے طلق سے نیچے اترنے

والی شراب۔ نرم یا سفید زہر۔

المَمْمَمِيذِيَةُ وَالسَمْمَمِيذِيَةُ: آئینہ۔ ج مَمْمَمِيذِيَةُ

وَمَمْمَمِيذِيَاتُ.

مَمْمَمِيذِيَاتُ (ن) مَمْمَمِيذِيَاتٌ وَمَمْمَمِيذِيَاتٌ وَمَمْمَمِيذِيَاتٌ:

مَمْمَمِيذِيَاتٌ وَمَمْمَمِيذِيَاتٌ وَمَمْمَمِيذِيَاتٌ:

مَمْمَمِيذِيَاتٌ وَمَمْمَمِيذِيَاتٌ وَمَمْمَمِيذِيَاتٌ:

مَمْمَمِيذِيَاتٌ وَمَمْمَمِيذِيَاتٌ وَمَمْمَمِيذِيَاتٌ:

مَمْمَمِيذِيَاتٌ وَمَمْمَمِيذِيَاتٌ وَمَمْمَمِيذِيَاتٌ:

مَمْمَمِيذِيَاتٌ وَمَمْمَمِيذِيَاتٌ وَمَمْمَمِيذِيَاتٌ:

مَمْمَمِيذِيَاتٌ وَمَمْمَمِيذِيَاتٌ وَمَمْمَمِيذِيَاتٌ:

مَمْمَمِيذِيَاتٌ وَمَمْمَمِيذِيَاتٌ وَمَمْمَمِيذِيَاتٌ:

مَمْمَمِيذِيَاتٌ وَمَمْمَمِيذِيَاتٌ وَمَمْمَمِيذِيَاتٌ:

مَمْمَمِيذِيَاتٌ وَمَمْمَمِيذِيَاتٌ وَمَمْمَمِيذِيَاتٌ:

مَمْمَمِيذِيَاتٌ وَمَمْمَمِيذِيَاتٌ وَمَمْمَمِيذِيَاتٌ:

مَمْمَمِيذِيَاتٌ وَمَمْمَمِيذِيَاتٌ وَمَمْمَمِيذِيَاتٌ:

مَمْمَمِيذِيَاتٌ وَمَمْمَمِيذِيَاتٌ وَمَمْمَمِيذِيَاتٌ:

مَمْمَمِيذِيَاتٌ وَمَمْمَمِيذِيَاتٌ وَمَمْمَمِيذِيَاتٌ:

مَمْمَمِيذِيَاتٌ وَمَمْمَمِيذِيَاتٌ وَمَمْمَمِيذِيَاتٌ:

علی الشی: ہاتھ پھیرنا اور کہا جاتا ہے "عنا
امر فلان" و "عنا اخلی" یعنی فلاں نے نہ
کڑوی بات کی نہ بیٹھی۔ "ومسایمسر وما
یخلی" یعنی نہ خار ہے نہ نافع۔
مسار مزارا ومبارة علی الأراض: کھینچنا۔
السرجل: پچھاڑنے کے لئے پلٹنا۔ ساتھ
گزرنا۔
امتریه وعلیه: گزرنا۔

تسمار القوم: بعض کا بعض کے ساتھ گزرنا۔
تسمار منا بنہم: ایک دوسرے کے ساتھ
بغض و دشمنی رکھنا کہا جاتا ہے "ھما
یتساران" وہ دونوں دشمنی لڑ رہے ہیں۔
استمر: گزرنا۔ جانا۔ ایک حالت پر باقی
رہنا۔ بیٹھی کرنا۔ یہ علی کھذا: باقی
رکھنا۔ ثابت رکھنا۔ السرجل: درست
معاملہ ہونا۔ الشی: کڑوا پانا۔ بالشی:
حملہ کرنے میں قوی ہونا۔

الممر: مصل۔ رسی۔ پھاوڑی۔
الممر: کڑوا۔ ایک قسم کی دوا جو ایک درخت
سے نکل کر جم جاتی ہے جس کا مزا کڑوا ہوتا
ہے اور یوا جھی ہوتی ہے۔ ممر الصحاری:
اندرائیں۔

المسرة: ایک بار۔ ج مسر ومسار ومسرور
ومورور ومورات۔

المسرة: مصل۔ وہ حالت کہ جس پر کوئی چیز
ہمیشہ رہے۔ رسی کی لڑی۔ جسم کی توانائی۔
ذہانت۔ ج مسرورج امزار: صفر یا سودا۔ ج
بسار۔ المسرة: بننا۔ کہا جاتا ہے "حبل
شدید المسرة" مضبوطی ہوئی رسی۔ ذو
سرة: لقب حضرت جبرئیل علیہ السلام کا۔

المسرة: الممر: کامنٹ۔ کڑوی۔ ج
مورانو: بہت بخیل۔ ایک قسم کی ہنری۔ ج ممر
وامزار۔ ابو ممر: کنیت امیس علیہ اللعن کہا
جاتا ہے "لقبی منه الممرتین" شرکوار بڑے
امرکو۔

المرازة: پنا۔ ج مرابو و مرارات: تلخی۔
المریزاء: ایک قسم کا کالادانہ جو گیہوں میں

ہوتا ہے اور پھینک دیا جاتا ہے۔ نازک
اندام لڑکی۔

السماروزة: نازک اندام لڑکی۔ ایک قسم کا
کالادانہ جو گیہوں میں ہوتا ہے۔

الممری: سالن۔ چٹنی۔ ایک قسم کی دوا۔
الممرار: ایک درخت ہے جس کو عوام الممریو
کہتے ہیں اونٹ جب اس کو کھاتا ہے تو اس
کے بوٹ سکر جاتے ہیں اور دانت نکل
آتے ہیں۔

الممریر والممریرة: پختہ ارادہ۔ من
الجبیل: مضبوطی ہوئی رسی۔ امر ممریر:
مضبوط معاملہ۔ سرجل ممریر: قوی پختہ ارادہ
والا۔ کہا جاتا ہے "استمر ممریر" یعنی ضعف
کے بعد قوی ہو گیا۔

"وامسمرت ممریرتہ علی کھذا" جبکہ کوئی
شخص کسی چیز کا عادی ہو جائے۔ الممریرة:
عزت نفس۔ رسی کی لڑکی۔ ج ممریر۔

الأممر: اسم تفصیل۔ کہا جاتا ہے "فلائق اممر"
عقدًا من فلان" یعنی فلاں سے زیادہ
عہد کا پابند ہے۔ ممر ممری۔ الأممر: گوہر
جمع ہونے کی آنتیں (اور یہ اسم جمع ہے)
الأممران: نضر اور بڑھاپا یا انیس کے مانند کہا
جاتا ہے "القمی منه الأممرین" یعنی اس نے
اس سے سختی اور سختی دیکھی۔

الممر: مصل۔ گزرگا۔
الممر: مفع۔ بہت مضبوطی ہوئی رسی۔
قربة ممرورة: بھری ہوئی خشک۔

ممر و ممری (س) و ممرور (ک) مرارة۔
الطعام: خوشگوار ہونا اور "ھتانی وھرائی
الطعام" اتباع کی بنا پر کہا جاتا ہے اور اگر
بغیر ہتانی کے کہنا ہو تو امرانی سبب افعال
سے کہا جائے گا۔

مسرا (ف) مسرة۔ السرجل: کھانا۔
وامرار: الطعام فلاتا: نافع و مفید ہونا۔
ممری (س) مسرة: بول چال یا بیت میں
عورت کی مانند ہونا۔

ممرور (ک) ممرورة: صاحب مروت ہونا۔

(مرارة) المکان: اچھی ہوا کا ہونا۔

مرارة: کسی کاھنیاً ممرینا کہنا۔

تصراً: تکلف مروت کرنا۔ صاحب مروت
ہونا کہا جاتا ہے "فلائق تصراً اینا" فلاں
ہمارے عیب یا نقصان کے ذریعے نخوت
چاہتا ہے۔

استمراً الطعام: خوشگوار کھنا۔ خوشگوار
پانا۔

السرة مثلثة المیم: مرد۔ ج رجال (من
غیر لفظہ) اور ممرورون بھی سنا گیا ہے اور
نسبت کے لئے ممری ممرت مرارة و ممرارة۔

اممرور: مرد۔ ہمزہ وصل کے ساتھ اور رسی
حرکت آخری حرکت کے مطابق ہوتی ہے۔
تم کہو گے جاء اممرور و رائت اممرور
بسامری: اور ہر حالت میں ضمہ و فتح بھی جائز
ہے۔ ممرت اممرارة ج نساء و نسوة (من
غیر لفظہا) اور جب تغیر بنا میں گے تو ہمزہ
وصل ساقط ہو جائے گا۔ کہا جائے گا ممری
وممرنة اور اممری: پر الف لام تعریف کا
داخل نہیں ہوتا اور اممرارة داخل ہونا نادر
ہے۔

الممرارة: مرارة: کامرارة ممری الطعام: کا
اسم۔

الممرارة: نخوت۔ کامل مرداگی۔ مصباح
میں ہے کہ ممرارة: ان آداب نفسانیہ کو
کہتے ہیں جو انسان کو اخلاق حسنا اور آداب
جمیلہ پر براہمختہ کریں اور کبھی ہمزہ کو واو
سے بدل کر ادغام کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں
ممرارة۔

الممری: نزرہ۔ ج ممرور و اممرارة: صاحب
مروت کہا جاتا ہے "طعام ممری" خوشگوار
کھانا۔ و کھلا ممری: بدبشمی نہ کرنے والی
گھاس۔ و "ھنیاً ممریناً" کھانے پینے والے
کے لئے دعا ہے۔ یعنی رچتا پچتا کھاؤ۔

الممرنة: ممری: کامنٹ۔ ارض ممرنة:
اچھی ہوا والی زمین۔

ممرت (ض) ممرتا: الشی: نرم و چمکدار

کرنا۔

الْمَرْوَةُ: موص۔ (..... وَالْمَرْوَةُ): جنگل جس میں بیزی نہ ہو اور کہا جاتا ہے اَرْضُ مَرْوَتٍ: زمین بیزی سے خالی۔ مَرْوَةُ مَرْوَتٍ: زمین بیزی سے خالی۔ مَرْوَةُ مَرْوَتٍ: زمین بیزی سے خالی۔ مَرْوَةُ مَرْوَتٍ: زمین بیزی سے خالی۔ مَرْوَةُ مَرْوَتٍ: زمین بیزی سے خالی۔

مَرْوَتٍ (ن ش) مَرْوَتَا الشَّيْءِ: نرم کرنا۔ الشَّيْءُ اصْبَعَهُ: بچے کا انگلی چمانا۔ تَدَدَى اَيْدِيَهُ: چوننا۔ الرَّجُلُ الرَّجُلُ: مارنا۔ السَّوَاءُ فِي الْمَاءِ: دوا بھگوننا۔ مَرْوَتُ الصَّمْرِ يَسِيدُهُ فِي الْمَاءِ: بھگوننا اور ریزہ ریزہ ہونے کے لئے بلانا۔

مَرْوَتٍ (س) مَرْوَتًا عَلَى الْخِصَامِ: صابرو برد بار ہونا۔ مَغْت مَرْوَتٍ وَمِنْ مَرْوَتٍ: مَضَارِثُ مَرْوَتٍ الشَّرِيذِ: شریک اور ریزہ ریزہ کرنا۔

مَرْوَجٌ (س) مَرْوَجًا الْأَمْرُ وَالْعَهْدُ وَالْإِمَانَةُ وَالذَّبْنَ: خراب ہونا۔ فاسد ہونا۔ الْعَخَاتِمُ فِي الْأَصْبَحِ: انگوٹھی کا انگلی میں ڈھیلا ہونا۔

مَرْوَجٌ (ن) مَرْوَجًا الدَّائِبَةُ: چوپایہ کو چراگاہ میں چرنے کے لئے چھوڑنا۔ مَرْوَجَتِ السَّائِبَةُ: چوپایہ کا چراگاہ میں چرنا۔ کہا جاتا ہے "مَرْوَجٌ لِسَانَهُ فِي أَعْرَاضِ النَّاسِ" اس نے لوگوں کی مذمت اور غیبت میں زبان چلائی۔ مَرْوَجٌ الْكَذْبُ: جھوٹ میں ملوث ہونا۔ السُّلْطَانُ رَعِيئَةٌ: فساد کرنے دینا۔ مَرْوَجٌ الْأَمْرُ: ضائع کرنا۔ مضبوط نہ کرنا۔ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: ملانا۔

مَرْوَجٌ الدَّائِبَةُ: چوپایہ کو آزادی سے چرنے دینا۔ الشَّيْءُ: ملانا۔ الْعَهْدُ: پورا نہ کرنا۔ مَرْوَجَتِ النَّاقَةُ: جنین کو خون رست ہو

جانے کے بعد گرا دینا۔

مَرْوَجٌ: موص۔ چراگاہ۔ مَرْوَجٌ: موص۔ چراگاہ۔ مَرْوَجٌ: موص۔ چراگاہ۔ مَرْوَجٌ: موص۔ چراگاہ۔

مَرْوَجٌ: موص۔ چراگاہ۔ مَرْوَجٌ: موص۔ چراگاہ۔ مَرْوَجٌ: موص۔ چراگاہ۔ مَرْوَجٌ: موص۔ چراگاہ۔

السَّمْرَجُ: فاس۔ بہت بھڑکنے والا شعلہ۔ بے دھوئیں کا انگارہ۔

السَّمْرَجُ: باتوں میں زیادتی کرنے والا اور جھوٹ بولنے والا۔

السَّمْرَجَانُ: چھوٹے موٹی۔ واحد مَرْوَجَانَةٌ: موص۔ چراگاہ۔

السَّمْرِيَجُ: سفید چھوٹی ہڈی جو سٹیکوں کے درمیان ہوتی ہے۔ مَرْوَجَةٌ: مَرْوِيَجٌ: گڑبڑ بولنے پر تریب معاملہ۔ سَهْمٌ مَرْوِيَجٌ: بلتا ہوا تیر۔ غَضْنٌ مَرْوِيَجٌ: شاخوں میں گھسی ہوئی شاخ۔

السَّمْرَوَجُ: وہ شخص جس کے امور مستحکم نہ ہوں۔ کہا جاتا ہے "نَاقَةٌ مَرْوَجٌ" وہ اونٹنی جس کو جنین گرا دینے کی عادت ہوئی ہو۔

مَرْوَحٌ (س) مَرْوَحًا وَمَرْوَحَانًا الرَّوْحُ: کھینچنے میں خوشہ لگنا۔ السَّخَابُ: بادل کا برسنا۔ مَرْوَحٌ عَيْنُهُ: آنکھ کا خراب ہونا اور پانی بہنا۔ العَيْنُ بِمَائِهَا وَقَدَاهَا: آنکھ کا پانی بہنا۔ مَرْوَحُ الرَّجُلِ: بہت زیادہ خوش ہونا۔ اِتْرَانَا: ناز سے چلنا۔ صَفْتُ مَرْوَحٌ: مَرْوَحِيٌّ وَمَرْوَحِيٌّ: مَرْوَحِيٌّ مَرْوَحِيٌّ: مَرْوَحِيٌّ کہا جاتا ہے "لَا تَمْرُحْ بِعَرَضِكَ" اپنی آبرو کے درپے نہ ہو۔ مَرْوَحٌ الْجِلْدُ: کھال پر تیل ملنا۔ المَزَادَةُ السَّجْدِيَّةُ: پانی بھر دینا تاکہ درز بند ہو جائے۔ البُرُ: گیسوں کا صاف کرنا۔ المَهْرُ: بچھیرے کو سدھانا۔ الرَّجُلُ بَرِيٌّ: جنگ میں شامل ہونا۔

مَرْوَحِيٌّ: کلمہ تعجب ہے جو تیر انداز کے لئے کہا جاتا ہے جب کہ تیر نشانہ پر لگے اور اسی کے مانند ہے "مَرْوَجِيًّا"۔

المَرْوَحِيُّ: بڑی لڑائی (مادہ ریحی سے) الجَمْرَحَةُ: مَرْوَحٌ: کا اسم نوع۔ شُكْلُ اَنْغُوْرٍ كَا دُحْرِيرٍ۔

المَرْوَحُ: شراب۔ چست و چالاک گھوڑا۔ قَسْوَسٌ مَرْوَحٌ: اچھے طریقہ سے تیر بھینکنے والی کمان۔

العَرَضُ وَالْبَعْرَاحُ: چست۔ خوش و خرم۔ العَصْرُحُ وَالْمِصْرَاحُ: بہت آنسوؤں والی آنکھ بہت جلد اگانے والی زمین۔

المُصْرَحُ: مفتح۔ مَكْرَمٌ مُمْصَرَحٌ: مٹی پر پھیلی ہوئی انگوڑی تیل۔

التَّمْرَاخَةُ: بہت خوش و خرم کہا جاتا ہے "هُوَ تَلْعَابَةُ تَمْرَاخَةَ" وہ بہت کھلاڑی اور بہت خوش و خرم ہے۔

مَرْوَحٌ فَلَانًا وَبِه: مرچا کہنا۔ خوش آمدید کہنا۔ السُّدَةُ فَلَانًا: وسعت و عجاجت میں رکھنا۔ ه: وسعت کی طرف بلانا۔

مَرْوَحٌ (ف) مَرْوَحًا: مذاق کرنا۔ جَسَدُهُ بِالذَّهْنِ: جسم پر تیل ملنا۔

مَرْوَحٌ (س) مَرْوَحًا: العَوْفُجُ: طویل شاخ اور اچھے پتوں والا ہونا۔ صَفْتُ مَرْوَحٌ: مَرْوَحُهُ: تیل ملنا۔ مَرْوَحٌ وَأَمْرُحٌ: العَجِيْنُ: خمیر کو پانی ملا کر ڈھیلا کرنا۔

تَمْرُوحٌ بِالذَّهْنِ: اپنے آپ کو تیل ملانا۔ السَّمْرُوحُ: موص۔ ایک قسم کا درخت جو جلد ہی آگ پکڑ لیتا ہے۔

المَرْوُوحُ: ماش کرنے کی چیز۔ المَرْوِخُ: فاسد ہونا۔ مَرْوِخٌ: بہتا ہوا پانی۔ رَجُلٌ مَرْوِخٌ: پانی بہانے والا مرد۔

المَرْوِخُ وَالْمَرْوِيخُ: بہت تیل لگانے والا بے وقوف۔ مِّنَ الشَّجَرِ: نرم و پتلا۔ المَرْوِيخُ: سب سے زیادہ سے ایک بتارہ کا نام جس کو ہندی میں منگول اور قاری میں جلاو فلک کہتے ہیں۔

المَرْوَحَةُ: چینی گھوڑ۔ مَرْوَحٌ: مَرْوَحٌ۔ المَرْوِخُ: دم پونچھ۔ السَّمْرِيخُ: سینک کے اندر چھوٹا سینک۔ مَرْوَحٌ

أَمْوَرُهُ.

تَوْرٌ أَمْوَحٌ: سپید سرخ داغ والا تیل۔
الْمَرْخَاءُ: چست تیز چلنے والی اونٹنی۔

مَرْوَدَةٌ (ن) مَرْوُودٌ وَمَرْوَدٌ (ک) مَرْوَادَةٌ
وَمَرْوُودَةٌ: سرکشی کرنا۔ نافرمانی کرنا۔
ہمسروں سے سبقت لے جانا۔ مَرْوَدَةٌ عَلَی
النِّسَابِ وَنَحْوَهُ: نفاق وغیرہ پر مداومت
کرنا۔

مَرْوَدَةٌ (ن) مَرْوَادٌ الشَّيْءُ: نرم کرنا اور صاف
کرنا۔ کائنا..... فَلَاتُنَا: چمک عزت کرنا.....
الذَّابَّةُ: جو پایہ کو زور سے ہانکتا..... الصَّبِيُّ
ثَنَدِي أَمْسَهُ: ہاتھوں سے ملنا..... المَخْلُوحُ
السُّفِينَةُ: کشتی کو چپو سے چلانا..... الشَّيْءُ فِي
النَّاءِ: پانی میں ملنا..... الغَضَنُ: شہی کی
چھال چھڑانا۔

مَرْوَدٌ (س) مَرْوَادٌ وَمَرْوُودَةٌ. الغَلَامُ: لڑکے
کے در تک بے داڑھی کے رہنا..... الرَّجُلُ:
دودھ میں بیٹھی ہوئی کھجور کھانے کی مداومت
کرنا۔

مَرْوَدٌ تَمْرِيذٌ وَمَرْوَادٌ الغَضَنُ: شہی سے
پتے جھاڑ دینا..... البِنَاءُ: عمارت کو ہموار و
چکانا کرنا۔ لمبی کرنا..... لِلْحَمَامِ تَمْرَادًا: کا
بک میں چپوئے چپوئے خانے بنانا۔

تَمْرَدٌ: مدت تک بے داڑھی کے رہنا۔
نافرمانی کرنا..... عَلَی النَّاسِ: سرکشی کرنا
..... الرَّجُلُ: ہمسروں سے بڑھ جانا۔ تکبر
کرنا۔ سرکشوں کے پاس آنا۔

المَرْوَادُ والمَرْوَادُ: گردن۔ مَرْوَادٌ:
المَرْوَدُ: پیلو کا تازہ پھل۔

المَرْوَدِيُّ: شہی چلانے کا چپو۔ مَرْوَادِيُّ:
المَرْوَادُ: فاسک۔ بلند کہا جاتا ہے "نناء"
مَارِدٌ "بلند عمارت (اور یہ مجاز ہے) مَرْوَادَةٌ
وَمَارِدُونَ وَمَرَادٌ.

المَرْوِيدُ: سخت سرکش۔ بڑا شریر۔ مَرْوَادٌ:
المَرْوِيدُ: دودھ میں بھگوئی ہوئی کھجور۔

أَلَمْوَرِدُ: بے داڑھی کا جوان۔ مَرْوَسٌ أَمْوَرِدُ:
گھوڑا جس کے کھر کے ارد گرد بال نہ

ہوں۔ مَوْنَسٌ مَرْوَادٌ: مَرْوَادٌ: مَرْوَادٌ:
"مَرْوَادٌ عَلَی جُرُودٍ" کم بال والے گھوڑوں
پر بے داڑھی مونیچھ کے جوان۔

المَرْوَادُ: بے چوں کا درخت۔ بخر
ریگستان۔ بخرزمین۔ مَرْوَادٌ:
المَرْوَادُ: کیبوتروں کی کاپک میں چھوٹے
چھوٹے خانے۔ مَرْوَادٌ:
المَرْوِيدُ: سخت سرکش۔

المَرْوَادُ فَوْشٌ: دو نامرد۔ زعفران۔ مَرْوَادٌ:
مَرْوَادُ فَوْشٌ: نرم کان والا مرد۔
مَرْوَادٌ (ن) مَرْوَادٌ: المَرْوَادُ: روٹی کو نرم کرنے
کے لئے ملنا۔

مَرْوَادَةٌ (ن) مَرْوَادٌ: کائنا..... آہستہ آہستہ چنگی
لینا جس میں تکلیف نہ ہو اور جب تکلیف ہو
تو اسے قمرس کہتے ہیں..... المَرْوَادُ: عیب
لگانا۔ ہاتھ سے مارنا..... المَرْوَادُ: ٹکرا کرنا
..... الصَّبِيُّ ثَنَدِي أَمْسَهُ: پیچے کا دودھ چیتے
ہوئے پستان پر ہاتھ مارنا۔

مَرْوَادَةٌ مَرْوَادَةٌ: مَرْوَادٌ: مَرْوَادٌ:
کرنا۔

مَرْوَادٌ: عَرْصَةٌ: عیب لگانا..... مَرْوَادٌ:
شریک کے مال کو اپنے مال سے جدا کرنا
..... مِّن مَّالِهِ مَرْوَادَةٌ: کچھ لے لینا۔

المَرْوَادُ والمَرْوَادَةُ: مَرْوَادٌ:
المَرْوَادَانِ: او سے اوپر ابھرا حصہ۔
المَرْوَادَةُ: ایک شکاری پرندہ جس کو عقیب بھی
کہتے ہیں۔

عَرْصٌ مَرْوِيدٌ: آبرو جس کی بے عزتی ہوئی
ہو۔

المَرْوَادَانِ عِنْدَ الفَرَسِ: ریشم۔ سرور۔
جو دھری مَرْوَادَانِ. والمَرْوَادَانِ عِنْدَهُمْ:
سرور۔

المَرْوَادَانِ فَوْشٌ: دو نامرد۔

مَرْوَسٌ (ن) مَرْوَسَةٌ الدَّوَاءُ: پانی میں بھگوئی
اور ملنا..... الصَّبِيُّ اِصْبَعُهُ: پیچے کا انگلی کو منہ
میں ڈال کے چوستا..... يَدُهُ بِالسَّجْدِ:
رومال سے پونچھنا..... حَبْلُ البَكْرَةِ: چرخی

سے اتر کر ایک جانب ہو جانا۔
مَرْوَسٌ (س) مَرْوَسَةٌ البَكْرَةُ: رتی کا چرخی
اور ادھر ادھر کی لکڑی کے درمیان پھنس جانا
..... کہا جاتا ہے "مَرْوَسٌ حَبْلُهُ" یعنی اس کے
اسور گزرتے ہوئے۔ مَرْوَسٌ الرَّجُلُ: کاموں
میں بہت مشغولیت والا ہونا۔

مَرْوَسٌ مَرْوَسَةٌ: مَرْوَسَةٌ الأَمْوَرُ: مشق کرنا۔
محنت کرنا۔ بھنگی کرنا۔ مہارت پیدا کرنا۔

خود کو کسی کام میں لگانا۔
مَرْوَسٌ: حَبْلُ البَكْرَةِ: چرخی پر رتی کو دو بارہ
چڑھانا۔

تَمْرَسٌ وَاَمْوَسٌ بِالشَّيْءِ: رُثْرًا: تَمْرَسٌ
بِالشَّيْءِ: خوشبو سے لت پت ہونا.....
بِالشَّيْءِ: برائی کے در پے ہونا..... بِدِينِهِ:
دین سے کھیلنا..... بِالشَّيْءِ: مارنا.....
بِالنَّوَابِغِ وَالمَخْصُومَاتِ: حوادث اور
جھگڑوں کا عادی ہونا..... اَمْوَسٌ المَخْطَبَاءُ
وَالأَمْوَسُ فِي المَخْصُومَةِ: خصومت میں اپنی
بات پراڑے رہنا۔

تَمْرَسٌ القَوْمِ فِي الحَرْبِ: یا ہم بنگ و
پیکار کرنا۔

المَرْوَسُ: مضم۔ لگا تا چار چال۔
المَرْوَسُ: کاموں میں زیادہ مشغولیت رکھنے
والا۔ بنگ آزمودہ۔ رتی جو چرخی سے
علیحدہ ہو جائے۔ کہا جاتا ہے "هَمْ عَلَی
مَرْوَسٍ وَاحِدٌ" وہ سب ایک ہی اخلاق کے
ہیں۔ مَرْوَسٌ:

المَرْوَسَةُ: رتی۔ مَرْوَسٌ وَجْجٌ أَمْوَسٌ:
أَمْوَسٌ المَرْوَسُ: سواری کی رسیاں۔

المَرْوَسُ والمَرْوَسَةُ: طاقت۔ سختی۔ کہا جاتا
ہے "هَمْوَسُهُ المَرْوَسُ" وہ نرم مزاج
ہے۔ اور اس کے مقابلہ میں ضَعْفُ
المَرْوَسِ کہا جاتا ہے۔

المَرْوَسُ: مضبوط۔ طاقت ور۔ کہا جاتا ہے
"لَيْلَةُ مَرْوَسَةٍ" سخت اور تھکا دینے والی
رات۔

المَرْوَسُ: چرخی جس سے رتی ایک طرف کو

گرگنی ہو۔

السمریس: پانی میں بھگوئی ہوئی کھجوریں وغیرہ۔

السمارستان والمارستان: شفاخانہ جمارستانات (دبیل)

سمرش (ن) سمرشا وجہہ: چہرہ نوچنا۔ کھرچنا۔ منہ سے کاٹنا۔ چمکی لینا..... ة: کلام سے ایذا پہنچانا۔ سمرش الماء: پانی بہنا۔

افترش الشئ: کھینچنا۔ اچک لینا..... بغیالہ: کمانی کرنا..... الشئ: جمع کرنا۔

السمرش: عس۔ بارش سے صاف شدہ زمین۔ وہ زمین جو تھوری سی بارش میں بہہ نکلے۔ سمرشوش وامرئش۔ السمرش: پہاڑ کا پست حصہ۔

الامرئش: بہت شریر۔ مونث سمرشاء ج سمرش۔ المرشاء: ہر پاگل کٹ کھنا جانور۔ مختلف قسم کی گھاسوں والی زمین۔

المرئش: بہت کماؤ۔ التمرئش: تھوڑی بارش۔

مرض (ن) مرضا القدی ونحوہ: پستان کواٹھیوں سے دبانے۔

مرض (ن) مرضا الرجل: سبقت کرنا۔ آگے بڑھ جانا۔

تسمرص القشر عن الشعبیر ونحوہ: جو وغیرہ سے چھلکا اتر جانا۔

المرؤض: تیز رفتار اونٹنی۔

مرض (س) مرضا ومرضا: بیمار ہونا۔

صفت مرض ومریض ومرارض۔ مرضه: علاج کرنا۔ تیمارداری کرنا۔ مریض کر دینا۔ سمرض فی الامر: کاٹل ہونا۔ کمزور ہونا۔ مضمیوطی سے نہ کرنا..... المرئ: گیبوں بکھیرنا۔

امرؤض: مریض ہونا..... اللہ فلانا: مریض بنانا..... ة: مریض پانا۔ کہا جاتا ہے "آئیٹ زیندا فامرؤضہ" میں زید کے پاس آیا تو میں نے اس کو مریض پایا..... اجمفانہ: بگلوں کو پست کرنا..... الرجل: حاجت برآری کے

قریب ہونا۔ القوم: مریض چوپائے والے ہوتا۔

تمرؤض: کام میں کمزور ہونا۔ تمرؤض: جھکتا مریض بننا..... فی امرہ: کمزور ہونا۔

السرض والمرؤض: بیمار ج امرؤض کہا جاتا ہے "بہ مرضه شدیدة" یعنی اسے سخت مرض ہے۔

المریض ج مرؤضی والمرؤض ج مرؤض بیمار۔ قلب مرؤض: کمزور دین والا۔ رائی مرؤض: کمزور رائے۔ عین مرؤضہ: کمزور آنکھ۔ ریخ مرؤضہ: ست ہوا۔ لیلہ مرؤضہ: رات جس میں ستارے دکھائی نہ دیں۔ أرض مرؤضہ: تنگ زمین۔ جمیل

زمین۔ بہت فتنہ فساد جنگ و جدال والی زمین۔ شمس مرؤضہ: بادل وغیرہ کی وجہ سے اچھی طرح سے روشنی نہ دینے والا آفتاب۔ مرؤضہ کی جمع مرؤض و مرؤضی۔ الممرؤض: بہت بیماری والا۔

المرؤوض والمرؤض: بیمار۔

مرط (ن) مرطاً ومرطاً: الشعر او الریش: بال یا پیر نوچنا..... الشئ: جمع کرنا..... بسلیجہ: پانچا نہ کرنا۔ مرطت المرأة: بولیدھا: چننا..... مرطاً ومرطاً: الرجل: جلدی کرنا..... فلائسا: ٹھکانا دینا۔ مرطاً الثوب: آستینوں کو چھوٹا کر کے چادر کی مانند بنانا۔

مرط (س) مرطاً: کم بالوں والا ہونا۔

امرط الشعر: بال کا نوچنے کے قابل ہونا۔ امرطت السخلہ: درخت خرما سے کچی کھجوریں گرانہ..... الساقۃ: اونٹنی کا چلنے میں تیز ہونا۔

سارطہ سمارطۃ: ایک دوسرے کے بال نوچنا۔

تمرط وامرط وامنرط الشعر: بال گرنا۔ تمرط الشہم: تیر کا پر سے خالی ہونا۔ امرط: الشئ: اچک لینا۔

المرط: ہر بے سلا ہوا کپڑا۔ اون یا ریشم کی چادر۔ ج مرطوط۔

الامرط: کم بال والا بھیڑ یا جس کے بال کچے ہوئے ہوں۔ چور۔ مونث مرطاء ج مرط شجرۃ مرطاء: بے پتوں کا درخت۔

سہم مریط ومرط وامرط: بے پر کا تیر۔ المرط من السہام: بے پر کا تیر کہا جاتا ہے "سہم مرطاً" ج امرط وامرط۔

المرطۃ: جو بال نوچنے یا سچی کرنے میں گرے۔ المرطوط: تیز رفتار اونٹنی۔ فرس مرطی: تیز رفتار گھوڑا۔

المرطۃ من النوق: تیز رفتار اونٹنی۔ ج ممراط۔

المریطی: حلق کا کوا۔

المریطاء: ناف یا سینہ اور پیڑ کے درمیان بغل۔ واڑھی بچے کے گرد اگرد۔

المریطاوان: واڑھی بچے کے گرد اگرد۔

مرع (ف) مرعاً رائیہ بالدھن: سر پر تیل ملنا..... شعرة: بال میں کھنٹی کرنا۔

مرع (س) مرعاً ومرع (ک) مراعة المسکان: سرسبز ہونا..... الرجل: خوش حال ہونا۔ مرع (س) مرعاً..... الرجل: سبزہ زار میں پھینچنا۔

امرع المسکان: سرسبز ہونا..... رائیہ بالدھن: خوب تیل ملنا..... القوم: سرسبز جگہ پانا۔

تمرع: جلدی کرنا۔ گھاس طلب کرنا۔

انمرع فی البلاد: جانا۔ سیر کرنا۔ المرع: گھاس۔ ج امرع وامرأع۔

مسکان مرع: سبزہ زار جگہ۔ رجل مرع: سبزہ زار ڈھونڈنے والا مرد۔

المرعۃ والمرعۃ: چرینی۔ المرعۃ والمرعۃ: ایک پرندہ تیر کے مانند۔ ج مرع ومرعان۔

مسکان مرع: سبزہ زار جگہ۔ ج امرع وامرأع۔ کہا جاتا ہے "فلان مرعی الجناب" فلاں بہت سخی و فیاض ہے۔

الأمروغة: سبزوار زمین۔ ج امارغ۔ الضمراع: سبزہ زار۔ ضمراغ الأرض: عمدہ زمینیں (اس کا واحد نہیں)	مرغاء ج مرغ۔ الضمرة: ایک آنت کا نام جس کو اور بھی کہتے ہیں۔ مرق (ن) مرقوقا السهم من الرمية: تیرکا شکار کو چمید کے پار ہو جانا۔ من الدین: گمراہی یا بدعت کی وجہ سے دین سے نکل جانا۔	صارقون ومرق، الصارق: چمید کر کے پار ہو جانے والا۔ المارقة: الصارق کا مؤنث۔ خوارج۔ المسرق المرقق: عصہ۔ ثوب مضمرق: عصہ سے رنگا ہوا کپڑا۔ المضمرق: نکلنے کی جگہ۔ روشن دان۔ لحم مضمرق: بہت چکنی گوشت۔ المضمرق: گویا۔ (گانے والا)
مرغ (ف) مرغبا الحیوان العشب: چارہ چرنا۔ فی العشب: چرنے کے لئے چھبنا۔ البعیر: اونٹ کا جھاگ ڈالنا۔ مرغ (س) مرغبا. عرضة: عزت پر وہہ لگنا۔ مرغبا تسمیرغا وتمراغا فی التراب: مٹی میں لوٹانا۔ مرغ العرض: آبرو کو داغ دار کرنا۔ رائسہ: خوب چل لگانا۔ مرغبا: فریب دینا۔ ذی التراب: مٹی میں چپکانا۔ امسرع: سونے میں رال بہنا۔ بہت بکواس کرنا۔ العجین: گندھے ہوئے آٹے کو پانی بڑھا کر نرم کرنا۔ عرضة: آبرو کو داغ دار کرنا۔ تسرع: فی التراب: مٹی میں لوٹنا۔ فی الامر: ترد کرنا۔ علی فلان: دیر لگانا۔ الحیوان: جانور کا جھاگ نکالنا۔ تسرعت السائمة: چوپایہ کا دیر تک کسی جگہ میں چرنا۔ الرجل: برائی سے دور رہنا۔ بدن کو چمکیا اور نرم کرنا۔ درو کی وجہ سے تلملانا۔ فی النعیم: نعمت میں لوٹ پوٹ ہونا۔ المرغ: مص۔ اعاب۔ باغ۔ تیل کی خوب مالش۔ الصارغ: فا۔ بے وقوف۔ المرغ من الشعر: بہت تیل جذب کرنے والے بال۔ الصارغ والمرغاة والمضموغ: جانور کے لوٹنے کی جگہ۔ المرغاة: مرغ کا اسم مرہ۔ باغ۔ الامرغ: افعال ردیل میں آلودہ۔ مؤنث	مرق (ن ض) مرقا القدر: شور باز یا دہ کرنا۔ الجلد: کھال سے اون اکھیرنا۔ بالرمح: نیزہ مارنا۔ الطائر: پرندہ کا بیٹ کرنا۔ مرقت (س) مرقا البیضة: اٹھنے کا گندا ہو کر پانی بننا۔ السخلة: درخت خراس سے زیادتی کی وجہ سے پھلوں کا گر جانا۔ امسرق القدر: شور باز یا دہ کرنا۔ الجلد: اون اکھیرنے کے قابل ہونا۔ السخلة: زیادتی کی وجہ سے پھلوں کا گرنا۔ اسم المرق: ہے۔ مرق: گانا۔ القدر: شور باز یا دہ کرنا۔ تسرق الشعر: بال اکھیر جانا۔ مرض وغیرہ کی وجہ سے بال جھڑ جانا۔ الثوب: کپڑے کا عصہ سے رنگا جانا۔ امسرق والمرق السهم: چمید کر پار ہونا۔ الشعور: بال گرنا۔ امسرق الشی: جلدی سے گزر جانا۔ الشیف من غمیدہ: تلوار کو میان سے سونٹنا۔ المسرق: مص۔ ہٹکی ہوئی اون۔ بدبودار اون یا کھال۔ خوشہ کے خار۔ ج امسراق کہا جاتا ہے "اصابہ ذلک فی مرقک" یعنی یہ مصیبت اس کو تمہاری وجہ سے یا تمہارے جرم کی وجہ سے لاحق ہوئی۔ المرق: بدبودار اون یا کھال۔ المرق والمرغاة: شور باز۔ المسرافة: اکھیری ہوئی اون۔ تھوڑی سی اکھیری ہوئی گھاس۔ المسارق: دین سے نکل جانے والا۔ ج	فارق لگانا۔ الفارقة: سامان پر نشان فارق۔ تمسمر الرمل: بریت کا موج مارنا۔ الجسم: جسم کا تھمتھانا۔ علی اصحابہ: امیر ہونا۔ المسمر: سنگ مرمر۔ واحد مسمرہ۔ والمسمران: بہت رس والا انار۔ نازک بدن تھمتھانے والا۔ المسمر: نازک بدن۔ تھمتھانے والا۔ المسمر: مص۔ بہت پارش۔ المسمریس: چکنی۔ سخت۔ مصیبت۔ لمبی گردن۔ المسمریس: گینڈا۔ مرن (ن) مرؤنة ومرؤنا ومرانة: تھوڑی سختی کے ساتھ نرم ہونا۔ یندہ علی العمل ووجهه علی الامر: سخت ہونا۔ مرؤنا ومرانة) علی الشی: عادی ہونا۔ مرن (ن) مرؤنا العجلد: کھال کو نرم کرنا۔ من عذوبہ: دشمن سے بھاگنا۔ بہ الأرض: زمین پر پلک دینا۔ مرن الشی: نرم کرنا۔ فلانا علی الامر: عادی بنانا۔ بہ الأرض: زمین پر پلک دینا۔ تمرن: جتکف وانا وزیرک بنا۔ مہربان ہونا۔ علی الشی: عادی ہونا۔

مَرْمَرٌ ج مَرْمَرَاتٌ : خاتون کا نام (سریانی لفظ) اس کا معنی بلندی پانے والی ہے۔
الْمَرْجَحُ : شراب اور پانی کا نام جس کو مقدس کام کے وقت پیا جاتا۔ (سریانی لفظ) ترجمہ: ملا ہوا۔

أَمْرٌ مُّضَرٌّ : سیدھا معاملہ۔
مَرْؤٌ (س) مَرْؤَةٌ الرَّجُلِ : فضیلت والا ہونا۔
..... الشَّيْءُ : بہت ہوتا۔ صفت مَرْؤٌ
(..... مَرْؤَةٌ وَ مَرْؤَةٌ) الطَّعْمُ : کھٹ مٹھا ہوتا۔

مَرْؤٌ (ن) مَرْؤٌ : چوستا۔
مَارٌ مُمْرَأَةٌ : بٹھنا، دور دور کرنا۔

مَرْؤَةٌ : فضیلت والا مٹھنا۔ بگذا : فضیلت دینا۔

تَمَارَاتُ البَيْتَةِ : دور ہونا۔
تَمَرَزُ الشَّرَابُ : چوستا۔ کھٹھا کھانا پینا۔

المَرْؤُ : دشوار۔ سخت۔ کہا جاتا ہے "هَذَا أَمْرٌ مَرْؤٌ" یہ سخت کام ہے۔

المَرْؤُ : مرتبہ و فضل۔ کثرت اور کہا جاتا ہے "شَيْءٌ مَرْؤٌ" ناقص چیز۔

المَرْؤُ : کھٹ مٹھا۔ مَوْثٌ مَرْؤَةٌ : المَرْؤُ الشَّرَابُ وَ المَرْؤَةُ : خوشگوار شراب

المَرْؤَةُ : ایک مرتبہ چوستا کہا جاتا ہے "مابقی فی الانشاء الأَمْرَةُ" برتن میں صرف تھوڑا سا باقی رہا۔

المَرْؤُ : کثرت اور کہا جاتا ہے "فَعَلْتَهُ عَلَي مَرْؤٌ" یعنی میں نے اس کو مہلت سے کیا۔

المَرْؤُ : ناقص۔ تھوڑا۔ بہت۔ دشوار۔

المَرْؤُ : ناقص۔ افضل۔ دشوار۔ مَوْثٌ مَرْؤَةٌ ج مَرْؤٌ

مَرْؤٌ (ن) مَرْؤَةٌ وَ مَرْؤَةٌ : مَرْؤَةٌ ج مَرْؤَةٌ : پانی ملانا۔
فَلَانًا عَلَي فَلَانٍ : آکسانا۔ برا بھینٹا کرنا۔

مَرْؤَةٌ ج مَرْؤَةٌ : مخالفت کرنا۔ فخر کرنا۔
مَرْؤٌ السُّبُلِ : سبزی کے بعد زرد ہونا۔
فَلَانًا : کچھ دینا۔

تَمَارُجًا : باہم ایک دوسرے کا ملنا۔

الْمَرْؤُ مَرْؤَةٌ : یعنی زمانہ نے اس پر بلا نازل کی۔ المَرْؤُ : ایک خوشبودار پودہ۔

المَرْؤَةُ : مکہ معظمہ کی ایک پہاڑی کا نام۔
مَرْؤٌ مَرْؤٌ : مَرْؤَةُ النَّاقَةِ : دودھ اتارنے کے لئے تھن پر ہاتھ پھیرنا۔
..... المَرْؤُ : وَ نَحْوَهُ : خون نکالنا۔
..... حَقَّهُ : حق کا انکار کرنا

..... السَّرِيحُ الشَّحَابُ : ہوا کا بادل سے بارش برسانا۔
..... الشَّيْءُ : نکالنا۔
..... الفَرْسُ : کوزے وغیرہ سے مار کر رفتار ظاہر کرنا۔ کہا جاتا ہے "مَرْؤٌ مَرْؤٌ" ذاتہً بساقہ" وہ گزرا

اس حال میں کہ اپنے جانور کو اپنی پنڈلی سے وبادا کر اس کی رفتار کو دکھلا رہا تھا۔

..... فَلَانًا مَاءَ مَرْؤُطٍ : کوزے مارنا۔ مَرْؤٌ الفَرْسُ : گھوڑے کا تھن پاؤں پر کھڑے ہو کر چوستے کوزے پر پھینکا۔

أَمْرٌ مَرْؤَةٌ : اونٹنی کا بہت دودھ والی ہونا۔
مَارٌ مِرَاءٌ وَ مَمْرَأَةٌ : جھگڑا کرنا۔

تَمَارُجًا : باہم جھگڑا کرنا۔
إِفْتَرَى فِي الشَّيْءِ : شک کرنا۔
وَ اسْتَمْرَى اللَّبَنُ وَ نَحْوَهُ : دودھ دوہنا۔
..... نکالنا۔

تَمْرَى تَمْرًا : بگذا : آراستہ ہونا۔
المَرْؤَةُ وَ المَرْؤَةُ : جھگڑا۔ کہا جاتا ہے "مَابَقِي مَرْؤَةٌ" یعنی اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔
..... شک المَرْؤَةُ : دودھ جو اونٹنی کے تھن پر ہاتھ پھیر کر دو با جائے۔ کہا جاتا ہے "أَخَذْتُ مَرْؤَةً مَرْؤَةً" اونٹنی کے تھن پر ہاتھ پھیر کر دوہا ہوا دودھ میں نے لیا۔

المَرْؤُ : بہت دودھ والی اونٹنی۔ رگ جو دودھ سے بھر جاتی ہے۔ ج مَرْؤًا : المَرْؤًا : جمع مَرْؤَةٌ : بھٹی آئینہ اور بجائے ہینٹا مَرْؤًا کے ہینٹا مَرْؤًا : بھی کہا جاتا ہے۔

المَرْؤَةُ : بہت دودھ والی اونٹنی۔
المَرْؤُ : سفید چکنہ جھگڑا۔ مَوْثٌ مَرْؤَةٌ : چھوٹی دھاری دار کھلی۔ قنارہ کا شکاری۔
المَرْؤَةُ وَ المَرْؤَةُ : سفید چکنے جھگڑے والی گائے۔

تَمَارَاتُ النَّاقَةِ : دودھ دینے سے رک جانا۔
المَرْؤُ : بھس۔ ایک قسم کا کپڑا۔ نرم کھال لباس پوپٹین۔ عطیہ۔ جانب۔ ج اَمْرَانِ : مرنا۔

الآنْفُ : ناک کے دونوں جانب۔
المَرْؤُ : بچان جس پر باغبان سوتا ہے۔
المَرْؤُ : ملائم وخت۔ عادت۔ کہا جاتا ہے "لَهُم عَلَي صِرْبٍ وَاحِدٌ" جب کہ سب اخلاق میں ایک جیسے ہوں۔ حال۔ کہا جاتا ہے "نَمَا زَالَ ذَلِكَ مَرْؤِي" ہمیشہ میری یہ حالت رہی۔ المَرْؤُ : شور و جنگ۔

المَرْؤُ : شہوس و لچک دار نیزے۔ ایک درخت ہے جس کے نیزے بنائے جاتے ہیں۔ وَ احِدٌ مَرْؤَةٌ : المَرْؤُ : ناک کا کنارہ یا ناک کا نرم حصہ ج مَرْؤَانِ : رُمُحٌ مَرْؤَانِ : شہوس لچک دار نیزہ۔

المَرْؤُ : عِنْدَ النَّصَارِيِّ : عیسائیوں کے اعتقاد میں ایک مقدس تیل جو بعض رسوم میں عیسائیوں کو لگا جاتا ہے۔
أَمْرَانِ البَّرَاغِ : ہاتھ کا پٹھا۔

مَرْؤَةٌ (س) مَرْؤَةٌ عَيْنُهُ : سرمہ چھوڑنے سے آنکھ کا خراب ہونا۔ صفت مَرْؤَةٌ وَ مَرْؤَةٌ : رَجُلٌ مَرْؤَةٌ : الفؤاد۔ مرد بیمار دل۔ سحاب مَرْؤَةٌ : سفید بادل جس میں سیاہی بالکل نہ ہو۔

المَرْؤَةُ : الامرہ : کا مَوْثٌ : شاة مَرْؤَةُ : سفید بکری جس میں کوئی اور داغ نہ ہو۔ ج مَرْؤَةٌ أَرْضٌ مَرْؤَةُ : کم درخت والی زمین۔

المَرْؤَةُ : سفیدی جس میں کوئی دوسرا رنگ ملا ہوا نہ ہو۔ گڑھا جس میں بارش کا پانی جمع ہو۔
مَرْؤُهُم مَرْؤُهُم : الجُرُوحُ : زخم پر مرہم لگانا۔
المَرْؤُهُم : زخم پر لگانے والی دوا۔ ج مَرْؤُهُم

المَرْؤُ : ایک سخت قسم کا پتھر جس کو صوان بھی کہتے ہیں۔ وَ احِدٌ مَرْؤَةٌ کہا جاتا ہے "قَرُوعٌ

امنزج بہ ملنا۔

المنزج والمنزج: شہد۔ پانی جو شراب میں ملا یا جائے۔

المنزاج: مص۔ ملانے کی چیز (جیسے پانی شراب میں) مزاج۔ ج امنزاجہ۔

رجل منزاج: جھونٹا گڑ بڑ کرنے والا۔ ایک عادت پر پانی نہ رہنے والا۔

المنزاج: ملایا ہوا۔ کڑوا ہوا۔

منزح (ف) منزحاً: مذاق کرنا۔ دل لگی کرنا۔

منزح السنبل أو العنب: رنگ پکڑنا۔

منازحہ منازحاً ومنازحاً: ہمیشی مذاق کرنا۔

تمنازحاً: باہم ہمیشی مذاق کرنا۔

تمنزح بہ: فخر کرنا۔

المنزح: مص۔ خوش۔

المنزاحة والمنزاح: ہمیشی۔ مذاق۔ دل لگی۔

المنزاح: بہت ہمیشی مذاق کرنے والا۔

المنزوح من الناس: ہمیشی مذاق کرنے والے لوگ۔

المنزاد: سردی۔

منز (ن) منزاً: من السنین: تھوڑا سا پینا

..... السنین: دو دو کو کچھنے کے لئے پینا.....

آہستہ سے چٹکی لینا۔ غصہ ولانا (.....)

ومنز (القویۃ) مشک بھرنا۔

منز (ک) منزارة: ظریف ہونا۔ سخت

دل ہونا۔

تمنزر النبیذ: تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چکھنا۔

المنزور: مص۔ مرد ظریف۔

المنزور: جو یا گیہوں کی شراب۔ بے وقوف۔

اصل۔ کہا جاتا ہے "هو کبرئیم المنزور" وہ شریف الاصل ہے۔

المنزور: ظریف۔ سخت دل۔ ج امازور۔

الامنزور: اسم تفضیل ہے مسز سے مؤنث

منزراء ج منزر و امازور کہا جاتا ہے "هو من امازور والناس" وہ افضل الناس میں سے ہے۔

المنزرة: ایک مرتبہ چوسنا۔

منز (ف) منزعا الطبی ونحوہ: ہرن کا آہستہ سے چھلانگ مارنا (..... ومنزع)

المنظن: روٹی تو منا۔ منزع الشی: متفرق کرنا۔

تمنزع: جدا جدا ہونا۔ تمنزعو الشی بینہم: انہوں نے چیز آپس میں تقسیم کر لی اور کہا جاتا ہے "هو تمنزع غیظاً" وہ غصہ کی وجہ سے پھٹ پڑا۔

المنزعة: روٹی وغیرہ کا ٹکڑا۔ ج منزع (.....)

والمنزعة: من لحم او شخص: گوشت یا چربی کا ٹکڑا۔

..... من السماء: پانی کا گھونٹ۔ ج منزع ومنزع.

المنزاع: بہت دوڑنے والا۔ (سیمی)

المنزاعة: من الشی: روٹی وغیرہ کا وہ حصہ جو توستے وقت گرے۔

المنزعی: چغل خور۔

فرس منزع: تیز رفتار گھوڑا۔

منزق (ن ش) منزقا ومنزقة الثوب: پھاڑنا

..... عرضہم: طعن مارنا۔ عیب لگانا۔ صفت

منزق ج منزقون جیسے "اتناسی انہم منقون عرضی" مجھ کو یہ اطلاق ملی ہے کہ وہ میری

آرو میں عیب لگاتے ہیں..... الطالیس

بہ سلجھ: پرندہ کا بیٹ کرنا۔

منزق الثوب: چیر چیر کرنا کہا جاتا ہے

"منزقہم اللہ کل منزق" اللہ ان کو پورے

طریقہ سے پرانگہ کرے۔

منزقة: دوڑنے میں آگے بڑھ جانا۔

تمنزق: پھنسا..... القوم: متفرق ہونا۔

انمنزق: پھنسا۔

المنزقة: کپڑے وغیرہ کا ٹکڑا اور کہا جاتا ہے

"ثوب منزق ومنزق ومنزق" پھنسا ہوا کپڑا۔

نافة او فرس منزاق: تیز رفتار۔ گویا کہ تیز

رفتاری کی وجہ سے کھال پھٹنے کے قریب

ہے۔

منزرة: اکھیرنے کے لئے ہلانا۔

تمنزق: حرکت کرنا..... للقیام: اٹھنے کے لئے تیار ہونا۔

منز (ن) منزنا ومنزونا: چلا جانا.....

وجہہ: چہرہ کا چمک اٹھنا..... من العلو: دشمن سے بھاگنا (..... ومنزق القویۃ: مشک بھرنا..... فلانما: تعریف کرنا۔ فضیلت دینا۔

تمنزق: چلا جانا..... علی القوم: مہربانی و سخاوت کرنا۔ جکلقت فضل ظاہر کرنا۔

جکلقت لریک نینا..... علی الأمر: عادی ہونا۔

المنزق: بادل۔ سفید بادل۔ پانی سے بھرا ہوا

بادل۔ حب المنزق: اولہ۔

المنزقة: بادل کا ٹکڑا۔ بارش۔ این المنزقة: نیا چاند۔

المنزق: عادت۔ طریقہ۔ حال کہا جاتا ہے

"قارال علی هذا المنزق" ہمیشہ اس

حالت پر رہا۔

المنزق: فاجیوئی کے اٹھنے۔

منزقة: منظر کا ایک قبیلا اور نسبت کے لئے

منزقہ۔

منز (ف) منزها: ہمیشی مذاق کرنا۔

منزامنزومنزوا: تکبر کرنا۔

منزاه تمنزقة: تعریف کرنا۔ فضیلت دینا۔ کہا

جاتا ہے "منزنت مناعه حتی نفقتہ لہ" میں

نے اس کے سامان کی تعریف کی یہاں تک

کہ اس کو راج کر دیا۔

تمنازق القوم: قوم میں سے ہر ایک کا اپنی

فضیلت کا دعویٰ کرنا۔

المنزور والمنزرة ج منزایا والمنزارة: ج

منزایات: علم۔ کرم۔ شجاعت وغیرہ میں

فضیلت جس کی وجہ سے دوسرے سے امتیاز

ہو جائے۔ خوبی۔ عمدگی۔

منزى بمنزى: تکبر کرنا۔

منزى تمنزقة الرجل: تعریف کرنا۔

کہا جاتا ہے "قععد عینى منازیا ومننازیا"

یعنی مجھ سے دو مخالفت ہو کر بیٹھا۔

اندر کوئی خیر نہیں "وافستک فی البئد" وہ
شہر میں ٹھہرا رہا۔

اِسْتَمْسَكَ بِهِ: چمٹنا..... عَنْ كَذَا: باز رہنا
..... بَوَّلَهُ: پیشاب بند ہونا..... الرَّجُلُ عَلِيٌّ
وَاجِلَةٌ: جم کر چمٹنا۔

الْمَمْسُوكُ: مضم۔ کھال۔ مَمْسُوكٌ
وَمَمْسُوكٌ: ایک ٹکڑے کو "مَمْسُوكَةٌ" کہتے
ہیں۔

الْمَمْسُوكُ: پانی روکنے کا بند۔ زمین کے
طبقات۔ ہاتھی دانت یا ہڈی کے ٹکڑے یا
پازیب۔ کچھوے کی کھال۔ مچھلی کی ہڈی۔
واحد مَمْسُوكَةٌ۔

الْمَمْسُوكُ: بقاء بدن کے مقدار کھانا پانی
عقل کامل۔

المسك: مشک۔ کستوری۔ یہ ایک جانور کا
خون ہے جو اس کی ناف میں جمع ہوتا ہے اور
اس جانور کو غزال المسك کہتے ہیں اور
مشك کے ٹکڑے کو مِسْكَةٌ کہتے ہیں۔ م۔ ج۔

مسك. مِسْكٌ الْمِسْكُ وَالْمِسْكُ الْجَنُّ:
دو قسم کی نباتات۔ لفظ مِسْكٌ فراء کے
نزدیک مذکر ہے اور دوسرے ائمہ لغت کے
یہاں مذکر مؤنث دونوں۔

المسكئة: جس سے تعلق کیا جائے۔ بقاء
بدن کی مقدار کھانا پانی۔ عقل تام و رائے
کامل۔ سخت کنواں جس میں من بنانے کی
ضرورت نہ ہو۔ م۔ ج۔ مِسْكٌ: کہا جاتا ہے "مما

فِيهِ مَسْكَةٌ" یعنی اس میں کوئی خیر نہیں
"وَلَيْسَ لِأَمْرِهِ مَسْكَةٌ" یعنی اس امر کے
لئے کوئی اصل نہیں جس پر اعتماد کیا جائے۔
"وَفِيهِ مَسْكَةٌ مِنْ خَيْرٍ" اس کے اندر خیر کا
کچھ بقیر ہے۔ "وَصَافِي مِسْكَةٌ مَسْكَةٌ مِنْ
مَسَاءٍ" اس کے مظہرہ میں تھوڑا سا پانی بھی
نہیں۔

المسكئة والمسكئة: بخل۔

المسكئة: بخل۔ وہ شخص جو کسی چیز سے چٹے
تو اس سے چھکارا نہ پاسکے۔ وہ شخص کہ
جب کوئی اس کے مقابل ہو تو وہ بھاگ کھڑا

ہو۔ م۔ ج۔ مَمْسُوكٌ۔

المسك: پانی روکنے کا بند۔ بخل۔

المسك: بخل۔ روکنے والی چیز۔ تلوار
وغیرہ کا دستہ اور کہا جاتا ہے "مما فِيهِ
مِسْكٌ" یعنی اس کے اندر خیر نہیں۔

المسكئة والمسكئة: بخل۔
المَمْسُوكَاتُ: وہ مقامات جہاں پانی کی
حفاظت کی جائے۔

المسكان: بیعانہ۔ م۔ ج۔ مَسَاكِينُ
المسكين والمسكئة: دیکھو مادہ م۔ ک۔
ن۔

المسك والمسك والمسكئ:
بخل۔

المسكئ م۔ ج۔ مَمْسُوكٌ وَالْمَمْسُوكُ:
بخل۔ کہا جاتا ہے "بِقَاءِ مَمْسُوكِ
وَمَمْسُوكِ" مشک جو پانی کو روکے پینے نہ
دے۔ "وَمما فِيهِ مَمْسُوكٌ" اس کے اندر
خیر نہیں۔

الإمسك: مضم۔ بخل۔
المسكئة والأرض المسكئة: زمین جو تپتی
کی وجہ سے پانی کو جذب نہ کرے۔
المسكئة المسكئة: ایک قسم کی نباتات۔

مَسَلَّ (ن) مَسَلًا الْمَاءُ: پانی بہنا۔
افْتَسَلَ الشَّيْفُ: تلوار سونٹنا۔
المَسَلُ: پانی بہنے کی جگہ۔ م۔ ج۔ أَمْسَلَةٌ
وَمَسَلٌ مُسَلَّانٌ وَمَسَائِلُ۔

مَسَالَا الرَّجُلِ: مرد کے دونوں بازو یا
داڑھی کے دونوں جانب یا مرد کے دونوں
پہلو۔

مَسَالَةُ الْوَجْهِ: حسن کے ساتھ چہرہ کی
لمبائی۔

المسبل: بہاؤ۔ دودھ وغیرہ کا آبی حصہ۔ تر
شبی۔ م۔ ج۔ مَسَلٌ وَأَمْسَلَةٌ مَسَلٌ الْمَاءُ:
پانی بہنے کی جگہ۔ م۔ ج۔ مَسَلٌ الْمَاءُ:
مذکور ہے۔

مَسَمَسَ مَسَمَسَةً وَمَسَمَسَا الْأَمْرَ: مخلط
ہونا۔ ملتہس ہونا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مَسَمَسٌ
بِأَمْرِهِ"۔

أَمْسَرَهُ فَمَسَمَسَ: وہ اپنے معاملہ میں
اشتبہ میں ہے۔

مَسَمَسَ الرَّجُلُ: جنوبی کیفیت لاحق ہونا۔
المَسَمَسُ: بگاڑ۔

مَسَمَسَ (ن) مَسَمَسًا الرَّجُلُ: بے باک ہونا۔
هُ: مارتے مارتے گرا دینا..... الْمَسْمَسِيُّ مِنْ
الشَّيْءِ: بھینچنا۔

مَسَمَسًا يَمَسَمَسُونَ الْجَمْرَ: جگدھے کا اڑنا
(..... وَمَسَمَسَ تَمَسَمَسَةً الرَّجُلُ: کسی چیز کا
وعدہ کر کے ٹالنا۔

مَسَمَسًا تَمَسَمَسَةً: شام کے بہتر ہونے کی
دعا دینا۔ یہ کہنا کہ تم نے شام کو کس طرح بسر
کی اور کہا جاتا ہے "مَسَمَسَ بِهَ اللَّيْلِ" جبکہ
کوئی شخص شام کے وقت آئے۔

أَمْسَى أَمْسَاءً وَمَمْسَى: شام میں داخل
ہونا۔ کان کی طرح فعل ناقص ہو کر بھی
مستعمل ہے۔ جیسے "أَمْسَى زَيْدٌ صَاحِبًا"
یعنی زید شام کے وقت بس رہا تھا یا زید بس
رہا تھا۔

أَمْسَاهُ أَمْسَاءً: کسی چیز سے مدد کرنا۔ وعدہ
کر کے ٹالنا۔

مَسَامَةٌ مَسَامَةٌ: بھول کرنا۔
أَمْسَى أَمْسَاءً مَا عِنْدَ فُلَانٍ: بخل لے
لینا۔

المَسَاءُ م۔ ج۔ أَمْسِيَّةٌ وَالْمَمْسِيُّ وَالْمَمْسِيُّ
شام ظہر سے مغرب تک کا وقت۔
الْأَمْسِيَّةُ: شام۔ کہا جاتا ہے "أَتَيْتُهُ أَمْسِيَّةً"
أَمْسٌ: میں کل گزشتہ شام کے وقت اس کے
پاس آیا۔

المَمْسِيُّ: مضم۔ شام بسر کرنے کی جگہ۔
مَمْسَى يَمَسِي مَمْسِيًا الشَّيْءُ: ہاتھ سے پونچھنا
..... الْحَرُّ الْمَمْسِيَّةُ: گرمی کا جانور کو لاغر کرنا
..... الشَّيْفُ: تلوار سونٹنا..... الرَّجُلُ: برے
خلق والا ہونا۔

تَمَسَّسَى وَمَمْسَى الشَّيْءُ: بکڑے بکڑے
ہونا۔

أَمْسَى أَمْسَاءً: پیاسا ہونا۔

المناسی: فاق۔ وہ شخص جو کسی کی صحبت نہ سے۔ رجل مناس: ہلکا چھلکا مرد۔
المنسوفة: ایک زرد شے بکری کے پیٹ سے نکالی جاتی ہے اس کو ہاریک کپڑے سے نچوڑ کر دودھ ال دیا جاتا ہے اس سے جبن (بجیر) بن جاتا ہے۔

المناسی: منس۔ مصیبتیں (اس کا مفرد نہیں)

مش (ن) منشاً العظم: ہڈی کے اطراف کو چوستا۔ المناقة: اونٹنی کو دودھ بنا اور کچھ چھوڑ دینا۔ سارا دودھ دھونا۔ قال فلان: تمور اتھوڑا کر کے لینا۔ یذہ: ہاتھ سے چکنا بٹ دور کرنے کے لئے پونچھنا۔ فلانا: دشمنی کرنا۔ جھگڑا کرنا۔ الشی: پانی میں حل کرنے کے لئے بھگونانا۔

مَشَّشَ وَمَشَّشَ العَظْمَ: ہڈی چوس کے گودا نکالنا۔

امش العظم: ہڈی کا گودے والی ہوتا۔
امش لہ الشی: حاصل ہوتا۔

افش الثوب: کپڑا اتار لینا۔ فافی الصروع: جبن سے سارا دودھ لینا۔ من مال فلان: حصہ پانا۔ العظم: چھائی ہوئی بدن کو چوستا۔ المنسوط: پانچا نہ کرنے والے کا پتھریا ذیل سے استیجا کرنا۔

المشاش: مشاشة: کی جمع۔ نرم زمین۔ اصل انس۔ طبیعت۔ کہا جاتا ہے "فلان لین المشاش" فلاں نرم اخلاق ہے ومشاش الرجل: ستر و حشر کے خدام۔

المشاشة: نرم ہڈی کا سرا۔ راستہ کہ جس میں خاک اور نرم سنگ ریزے ہوں۔ پہاڑ کہ جس میں چشمے ابل رہے ہوں۔ نج مشاش: مشاشة القوم: قوم کے بہترین لوگ۔

المش: منس۔ کہا جاتا ہے "اطمعة حشاشاً" اس نے اسے عمدہ خوراک کھلائی۔

المشش: سفیدی جو اونٹ کی آنکھ میں ہو

جاتی ہے۔

الأمش: من الإبل: آنکھ میں سفیدی والا اونٹ۔ مؤنث مشاش ج مش۔

المشوش: ہاتھ پونچھے کا کپڑا جیسے رومال تو لید وغیرہ۔

المشاون: ارسطو کے فلسفہ کو ماننے والے اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ارسطو اپنی تعلیمات چل کر پیش کرتے تھے۔ المشایبة: فلسفہ ارسطو۔

مشجہ (ن) مشجاً بکذا: ملانا۔ کہا جاتا ہے "مشج بینھما"۔

المشج والمشیج والمشج والمشج: مخلوط امشاج۔ الامشاج: بیل کچیل جو ناف میں جمع ہو جائے۔

أمشحت السماء: بادل کا کھل جانا۔ السنة: خشک سالی ہوتا۔

مشر (ن) مشراً الشی: ظاہر کرنا۔

مشر (س) مشراً: اتارنا۔ اکر باز ہونا۔ مشر ومشر ومشر ومشر: الشجر: شاخیں لکھنا مشرہ: پہنانا۔ مشر الشی: تقسیم کرنا وامشر الرجل: کھل کر دوڑنا۔

بذنته: بدن کا پھولنا۔ الأرض: سبزی اگانا۔ ومشر الرجل: مستغنی ہونا یا دولت کا اثر ظاہر ہونا۔ مشر لاخله شینا: کمائی کرنا یا اپنے اہل کے لئے لباس خریدنا۔

الشجر: سرسبز ہونا۔ القوم: کپڑے پہننا۔

امشعر الراعی و رزق الشجر: چرواہے کا لکڑی سے درخت کے پتوں کو کھینچنا۔

المشر من الرجال: سخت سرخ مرد۔

المشر: نشان۔ کہا جاتا ہے "أفخیه مشراً" یعنی اس نے اس کو گالی دی۔ بجو کیا۔ یا گالی سنوائی۔

المشرة: نئی نکلی ہوئی نرم سبز شے۔ نیا نکلا ہوا پتہ لکڑی سے جھکاے ہوئے ہے "نئی نئی نکلی ہوئی گھاس اور کہا جاتا ہے "غلیبه مشرة غنی" یعنی اس کے اوپر دولت مندی کا اثر

ہے۔

مشرقة الأرض ومشرتها: سبزی یا نئی نکلی ہوئی سبزی۔

أرض مباشرة: بارش سے سیراب اور سبزی نکلی ہوئی زمین۔

الأمشر: چست و چالاک۔

الموشور: دیکھنے مادہ و شہ۔

مسط (ش ن) مسطاً ومسط الشجر: پالوں میں کنگھی کرنا۔ مسط الشی: ملانا۔ البعیر: اونٹ پر کنگھی جیسے آلہ سے داغ لگانا۔

مبسط (س) مبسطاً یذہ: کام کرنے سے کھر درا ہونا یا پھالس چھینا۔ (.....)

ومبسطت المناقة: دونوں پہلوؤں میں کنگھی جیسی چربی چڑھنا۔

امفشط: کنگھی کیا ہوا ہوتا۔ امفشطت الشجر: کنگھی کرنا۔

المشط والمشط والمشط والمشط والمشط والمشط: کنگھی امشاط ومشاط۔

المشط: کپڑا اپنے کا ایک آلہ جو کنگھی کے مانند ہوتا ہے۔ اونٹ کے بدن پر داغ کرنے کا کنگھی کے مانند آلہ۔ پست قدم کی تیلی تیلی ہڈیاں اور کبھی پورے قدم پر اطلاق ہوتا ہے۔ والمشط: ایک دریائی پھلی جس کو ملطی بھی کہتے ہیں۔

المشطة: مسط: کا اسم نوع۔

المشاطة: مشاطہ: گری۔

المشاطة: کنگھی کرنے میں گرے ہوئے بال۔

المشاط: شانہ ساز۔

المشاطة والمشاطة: کنگھی کرنے کا پیشہ کرنے والی۔

المشيط: کنگھی کیا ہوا۔ کہا جاتا ہے "شعر مشیط ولیمہ مشیط" کنگھی کئے ہوئے

بال۔ کنگھی کی ہوئی زلف۔

الممشط: کنگھی۔

مَشَّتِ النَّاقَةُ: اُونٹنی کا بدکتے ہوئے دودھ دینا۔ کہا جاتا ہے "تَمَاشَنَا جِلْدَةَ الظَّرْبَانِ" بدترین قسم کی آپس میں گالی گھونچ کرنا۔
الْمَشَانُ وَالْمَشَانُ: ایک قسم کی کھجور یا عمدہ کھجور۔

الْمَشْمَشِيُّ الرَّجُلُ: سہل دوا پینا۔ اور کہا جاتا ہے "الْمَشْمَشِيُّ بَغْدًا" جبکہ کوئی شخص سہل لے۔

الْمَشْوُ وَالْمَشْوُ وَالْمَشِيُّ وَالْمَشَاءُ: دست آوردوا۔

مَشِي (ش) مَشِيًا وَتَمَشَاءُ: چلنا۔ بہت مویشی والا ہونا..... زَيْدٌ بِرَأْيَتِ يَأْتَانَا اور اسم المِشِيَّة (..... مَشَاءُ) الْمَرْأَةُ أَوْ الْمَشَاهِيَّةُ: بہت بچوں والی ہونا..... بِالسَّمِيْمَةِ: چغل خوری کرنا۔ بَطْنُهُ: پیٹ چلنا۔

مَشَى تَمَشِيَةً: چلنا..... الرَّجُلُ: چلانا۔
أَمَشَى الرَّجُلُ: چلانا۔ أَمَشَاهُ الدَّوَاءُ: دست لانا..... وَامَشَى: بہت مویشی کے بچوں والا ہونا۔

مَاشَاهُ مُمَاشَاةً: ساتھ چلنا۔
تَمَشَى: چلنا۔

تَمَاشِيًا: یا ہم مل کے چلنا۔
المِشِيَّةُ: چال۔
المِشِيَّةُ: ارادہ۔ خوانش۔

الْمَاشِي: فا۔ ج مَشَاةً وَمَاشُونٌ: چوپائے والا۔ الْمُشَاةُ: چغلی کھانے والے..... مِنْ الْعَسْكَرِ: پیدل دست۔

الْمَاشِيَّةُ: مَاشِي: کا مؤنث۔ مویشی۔ ج مَوَاشِي.

الْمَشَاءُ: بہت چلنے والا۔ چغل خور۔
الْمَشْمَشِيُّ: چلنے کی جگہ۔ غلام کرورش ج مَاش.

مَضَّ (س ن) مَضًا وَتَمَضَّضٌ وَامْتَضَّضٌ: چوسنا۔

أَمَضَّ اللَّيْنُ: چوسانا۔

الْمَضَّضُ: مَضَّضٌ: قَضَبُ الْمَضَّضِ: گنا۔

الْمَضَّةُ وَالْمَضَّضُ مِنَ الشَّيْءِ: خالص۔

کہا جاتا ہے "فَلَأَنَّ كَرِيمَهُ الْمَضَّضُ" و "هُوَ مَضَّضٌ قَوْمِيهِ" جبکہ نسب کے لحاظ سے خالص ہو اور اس میں واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب برابر ہیں۔

المَضَّاضَةُ: جو چیز چوسی جائے۔

الْمَضَّاضُ: بہت چوسنے والا۔ چھینے لگانے والا۔

الْمَضَّانُ: کمینہ۔ کمینگی کی وجہ سے بھیڑ بکری کے تھن میں منہ لگا کر چوسنے والا اور گالی کے موقع پر مرد کے لئے یا مَضَّانُ اور عورت کے لئے یا مَضَّانَةَ کہا جاتا ہے۔ الْمَضَّانُ: چھینے لگانے والا۔

الْمَضَّانُ: گنا۔
الْمَضَّوْصُ: پختہ گوشت جو سرکہ میں ڈالا جائے۔

الْمَضَّيْبَةُ: پیالہ۔

فَضِيضُ الثَّرَى: نمناک مٹی یا ریت۔

الْمَمَّضُ: چوسنے کا آلہ۔

مَضَّتْ (ن) مَضَّتَا التَّجَارِيَةَ: جماع کرنا۔
النَّاقَةُ: ہاتھ ڈال کر بچہ دانی کو صاف کرنا۔

مَضَّخٌ (ف) مَضَّخًا وَمَضَّوْخًا الشَّيْءُ: جاتا رہنا۔ مُنْقَطِعٌ ہونا..... بِالشَّيْءِ: لے جانا۔ مَضَّخَتِ الدَّارُ: گھر کا نشان مٹ جانا۔ مَضَّخُ الثَّوْبِ: کپڑے کا پرانا ہونا

..... التَّبَاتُ: نباتات کا مرجھانا.....

الْكِتَابُ: کتاب کا مٹنا یا مٹنے کے قریب ہونا..... لَبَسَ النَّاقَةَ: اُونٹنی کے دودھ کا ختم ہونا

(مَضَّخٌ (ف) وَمَضَّخٌ (س) مَضَّخًا) الْبِطْلُ: کم یا تنگ ہونا۔ مَضَّتْ أَمَضَّخ.

مَضَّحٌ وَمَضَّحٌ وَأَمَضَّحٌ اللَّهُ مَرَضَكُ: صحت دینا۔ مرض کو زائل کرنا۔

المَضَّاحَاتُ: اُونٹنی کے بچوں کی کھالیں جن میں کچھ بھر کر اُونٹنی کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ وہ سمجھے کہ اپنا بھی بچہ کھڑا ہے۔

مَضَّخٌ (ف) مَضَّخًا الشَّيْءُ: کھینچنا۔

تَمَضَّخٌ وَامْتَضَّخٌ الشَّيْءُ: کھینچ کر نکالنا۔

وَامْتَضَّخٌ الشَّيْءُ عَنِ الشَّيْءِ: جدا ہونا۔

أَمَضَّخُ الْوَالِدُ: ماں کے پیٹ سے جدا ہونا۔
الْأَمَضَّوْخَةُ: بردی کا سفید گودا۔ ثَمَامٌ اور نَمَّسٌ کے پتے جِ أَمَضَّوْخٌ وَأَمَاصِيْبِيْخٌ (بردی کا ثَمَامٌ اور نَمَّسٌ یہ سب نباتات کی قسمیں ہیں)

الْمَضَّوْخَةُ: بکری جس کے تھن کی جڑ ڈھیلی پڑ گئی ہو۔

الْمَضَّاخُ: ایک قسم کی نباتات جس کے چھلکے پیاز کے مانند ہوتے ہیں۔

مَضَّدٌ (ن) مَضَّدًا الشَّيْءُ تَدْتِي أَمِيْدَةً: بچے کا ماں کے پستان کو چوسنا..... الشَّيْءُ: چوسنا۔

الرَّجُلُ: مطبوع و فرما نبرد دار کرنا۔

الْمَضَّادُ: بلند پشتہ۔ پہاڑ کی چوٹی جِ أَمْصِدَةٌ وَمَضَّدَانُ.

الْمَضَّدُ وَالْمَضَّدُ: گرمی کی شدت۔ سردی کی زیادتی۔ بادل کی گرج۔ بارش۔ بلند پشتہ۔

الْمَضَّدَةُ: بارش۔

مَضَّرَ (ن) مَضَّرًا. النَّاقَةُ: اُونٹنی کو انگلیوں کے اطراف سے دوہنا۔

مَضَّرَ الْعَطِيَّةُ: بند کر دینا یا تھوڑا تھوڑا دینا
مَضَّرُوا الْمَكَانَ: شہر بنانا..... الثَّوْبُ: گہرو سے رنگنا۔

تَمَضَّرَ الْمَكَانَ: شہر ہونا..... الشَّيْءُ او الْعَطَاءُ: کم ہونا..... الْقَوْمُ: پراگندہ ہونا..... الشَّيْءُ: پیچھا کرنا۔ تلاش کرنا.....

وَامْتَضَّرَ النَّاقَةَ: اُونٹنی کو انگلیوں کے اطراف سے دوہنا۔

الْمَضَّارُ: فا۔ دو چیزوں کے درمیان روک
نَاقَةٌ او شِئَاءٌ مَضَّارٌ: کم دودھ والی اُونٹنی یا بکری یا وہ جس کا دودھ دیر میں نکلے۔

المَضَّرُ: دو چیزوں کے درمیان روک۔ دو ملکوں کے درمیان کی سرحد۔ شہر۔ گوشہ۔ جِ أَمَضَّارٌ وَمَضَّرٌ وَمَضَّرٌ: ملک معمر۔

المَضَّرَانُ: کوئہ و بھرہ۔

المَضَّرِيُّ: منسوب الی مَضَّرٍ معمر کا رہنے

والا۔ مؤنث مضرية ج مَصَارٍ وَمَصَارِي
کہا جاتا ہے حُمُرٌ مَصَارٍ وَمَصَارِي۔

الْمَصُورُ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ الشَّاءِ: وہ اونٹنی یا
بکری جس کا دودھ دیر میں نکلے۔ ج مِصَارٍ
و مِصَارِي وَعِظَاءُ مِصُورٌ: تھوڑا عطیہ۔

الْمِصِيرُ: آنت۔ ج أَمْصِرَةٌ وَمُضْرَانٌ ج
مِضَارِيْنِ۔

الْمُضْمِرُ: گہرے رنگ ہوا۔

الْمُضْمِرَةُ: الْمُمْتَرُ: کامونٹ۔ کتے
ہوئے سوت کا گولا۔

مَضَطَّكَ الدَّوَاءُ: دوا میں مصطکی ملا تا۔

الْمُضَطَّكِي وَالْمُضَطَّكِيَّةُ: الْمُضَطَّكِيَّةُ
مصطکی۔ ایک مشہور دوا کا نام ہے (دخیل)

مَضَعٌ (ف) مَضَعًا التَّرْبِيُّ: بجلی کا چکنا۔
الدَّابَّةُ بِذَنَبِهَا: چوپایہ کا دم ہلانا۔ فَلَانًا:

کوز اور غیرہ مارنا۔ الْفَرَسُ: آہستہ سے
گزرنا۔ الطَّائِرُ بِذَرْقِهِ: پرندہ کا بیٹ کرنا

الْمَرْأَةُ بِالْوَلَدِ: بچہ گرا دینا۔ فَوَازٌ
فُلَانٌ: جلد بازی یا خوف سے دل کا پراگندہ

ہونا۔ مَلَأَ: (مضوعًا) لَبِنَ النَّاقَةِ:
اونٹنی کے دودھ کم ہونا یا سوکھ جانا۔ نَادِي

صِفَتِ مَاصِعٍ وَمَاصِعَةٌ: مَاءُ الْحَوْضِ:
حوض کا پانی کم ہونا۔ السَّرَجُلُ فِي

الْأَرْضِ: جانا۔ سَازَ كَرْنَا:
أَمْضَعَ الطَّائِرُ بِذَرْقِهِ: پرندہ کا بیٹ کرنا۔

العَوَسُخُ: درخت عوج کا پھل لگانا۔
الْمَرْأَةُ وَلَدَهَا: تھوڑا دودھ پلانا اور اَمْضَعَتْ

بِهِ: بچہ گرا دینا۔ الْقَوْمُ: بے دودھ والی
اونٹنیوں والا ہونا۔ لِفُلَانٍ بِحَقِيْقِهِ: اقرار

کرنا۔ مَضَعَ الْقَضِيْبُ: چھال کوٹہنی پر خشک ہونے
کے لئے چھوڑ دینا۔

مَاصِعٌ مِصَاعًا وَمِصَاعَةٌ: جَنگَ كَرْنَا:
مقاتلہ کرنا۔ قَبْرُنُهُ: تلواری وغیرہ سے مارنا

بیلسانہ: تہمت لگانا۔ تَضَاعَ الْقَوْمُ فِي الْحَرْبِ: باہم جگ
کرنا۔

أَمْضَعَ وَأَمْضَعٌ فِي الْأَرْضِ: جانا۔ سَازَ
كَرْنَا۔

أَمْضَعَ الْجِمَارُ: گدھے کا کان کھڑے
کرنا۔

الْمَضْعُ: مِصْ۔ ہانکنا۔ پھینکا جانا۔

المُضْعَةُ وَالْمُضْعَةُ: ایک چھوٹا پرندہ۔ عِوَجُ
دَرَسْتِ كَاجْهَلٍ۔ ج مَضْعٌ وَمَضْعٌ۔

الْمَاصِعُ: فَا۔ کھاری پانی۔ کم۔ گدلا۔
چمکیلا۔ پست پھیرنے والا۔ مَوْنَثٌ مَاصِعَةٌ۔

الْمِصْعُ: تلواری باز۔ لڑکا جو بٹے ہوئے
کپڑوں سے تھیل رہا ہو۔

الْمِضْوَعُ: خوفزدہ مرد۔
فَضَلُ (ن) مَضَلًا اللَّيْنُ: پانی پینے کے

لئے کپڑے میں لگانا۔ مَالُهُ: مال کو
انقویات میں خرچ کرنا (مَضَلًا وَمُضْوَلًا)

الْمُجِينُ وَنَحْوُهُ: ٹپکانا۔ السَّجُوحُ: زخم کا
رستا۔

أَفْضَلُ مَالَهُ: نالی تباہ کرنا۔ انقویات میں خرچ
کرنا۔ الْغَنَمُ: سارا دودھ دوہ لینا۔

أَمْضَلَبَ الْمَرْأَةُ: نا تمام بچہ گرا دینا۔ صَفٌّ
مُضْمِلٌ۔

الْمَمْضَلُ: مِصْ۔ (.....) وَالْمَمْضَالَةُ
وَالْمَمْضَالَةُ: مِنَ اللَّيْنِ وَنَحْوِهِ: دودھ وغیرہ

سے پکا ہوا پانی الْمُضَالَةُ: ٹھیلنا یا سٹکے سے جو
چپکے۔

الْمَاصِلُ: فَا۔ تھوڑا دودھ یا تھوڑا عطیہ۔
الْمَمْضَلَةُ: باریک بازوؤں والی عورت۔

الْمَمْضَلُ: دودھ وغیرہ سے پانی ٹپکانے کا
برتن۔ انقویات میں مال تباہ کرنے والا۔

مَضْمَضُ الْمَاءِ: زبان کے کنارے سے
حرکت دینا۔ السُّوْبُ: کپڑا ادا ہونا۔ صَافٌ

كَرْنَا۔ الْمُمْضَايِمُ: ہر چیز کا خالص۔ کہا جاتا ہے
"أِنَّهُ لِمُمْضَايِمٌ فِي قَوْمِيْهِ" وہ اپنی قوم میں

خالص النسب ہے۔ مَضٌّ (س ن) مَضًّا وَمِضِيضًا الْجُرْحُ
فُلَانًا: درد مند کرنا۔ تَكْلِيْفٌ بِبِنْتَانِيْ

الْكَحْلُ الْعَيْنُ بِجَدَّتِهِ: سرمہ کا آگھ میں
جلن پیدا کر دینا۔..... الخَلُّ فَاةٌ: سرمہ کا منہ کو

جلا دینا۔..... الشَّيْءُ فُلَانًا: تکلیف دہ غم میں
بتلا کرنا (..... مَضًّا) الشَّيْءُ: چوستا۔

مَضٌّ (س) مَضًّا وَمِضِيضًا الشَّيْءُ: درد مند
ہونا۔ (..... مَضًّا وَمِضِيضًا وَمِضِيضًا)

مضیت کے دکھ سے درد مند ہوا۔
أَمْضَهُ الْأَمْرُ: درد مند کرنا۔ جلن پیدا کرنا۔

أَمْضَهُ الْجُرْحُ وَنَحْوُهُ: درد مند کرنا۔ کہا
جاتا ہے "أَمْضَيْتَنِي كَلَامَ فُلَانٍ" فلاں کی

گفتگو نے مجھ کو تکلیف پہنچائی "أَمْضَهُ
جِلْدُهُ" اس کی کھال کھجلائی۔

مَاضَةٌ مِضَاضًا: لعنت ملامت کرنا۔
مَضْمَضٌ تَمِضِيضًا: بہت کھاری پانی پینا۔

کھانا دودھ پینا۔ تَمَاضُ الْقَوْمِ: باہم جھگڑا کرنا۔
الْمَضُّ: مِصْ۔ کُحْلٌ مَضٌّ: تیز جلن پیدا

کرنے والا سرمہ۔ رَجُلٌ مَضٌّ الضَّرْبِ:
تکلیف دہ مار پیٹ والا مرد۔

الْمِضُّ: ہونٹوں سے نہیں کے مانند کھڑکنا
اور کچھ امید بھی دلانا۔

مِضٌّ وَمِضٌّ وَمِضٌّ وَمِضٌّ مِصِيٌّ مِصِيٌّ
التَّوْنِيْنُ: کلمہ ہے جو لائینی کے معنی میں مشتمل

ہے مگر اس کے ساتھ کچھ امید بھی ہو۔
الْمِضَّةُ: اسم مرءة۔ مَوْنَثُ الْمَضِّ: امراة

مَضَّةٌ: عورت جو کسی کمزور و مضیت
برداشت نہ کر سکے الْبَسَانُ مَضَّةٌ: کھنے

دودھ۔ الْمَضْمَضُ: مِصْ۔ مضیت کی تکلیف۔ کھنا
دودھ۔

الْمِضَاضُ: جلن۔
الْمِضَاضُ: خالص۔ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ مِنْ

مِضَاضِ الْقَوْمِ" فلاں قوم کا خالص ہے۔
بہت کھاری پانی جو پینا نہ جا سکے۔ آگھ کی

جلن۔ الْمِضَاضُ: جلائے والا۔
مَضْحٌ (ف) مَضْحًا وَأَمْضَحُ عَرَضَةٌ:

مَضْحٌ (ف) مَضْحًا وَأَمْضَحُ عَرَضَةٌ:

عیب لگانا۔ مضغ عنہ: دوع کرنا۔ الشمس: شعاع پھیلنا۔ الإبل: اونٹوں کا منتشر ہونا۔ المزاذة: رسنا۔ مضد (س) مضدا: کینہ رکھنا۔ مضر (ن) ومضر (ک) ومضر (س) مضرا ومضرا ومضورا والنبذ او اللین: نمید یا دودھ کا کھنا ہونا۔ مضرة: قبیلہ منقری طرف نسبت کرنا اور کہا جاتا ہے "مضر اللہ لہ الشاء" اللہ نے اس کی تعریف اچھی بنائی۔ مضر مضر: ہلاک کرنا۔ نمضر: قبیلہ منقری طرف منسوب یا اس کے مشابہ ہونا۔ قبیلہ منقری جنبہ داری کرنا۔ تمضرت المشایة: جانور کا موٹا ہونا۔ لبن مضر وماضر ومضیر: کھنا دودھ۔ وعیش مضر: آسودہ زندگی اور کہا جاتا ہے "ذهب دمه خصرا مضرا او خصرا مضرا" یعنی اس کا خون رائیگاں گیا۔ "أخذہ خصرا مضرا او خصرا مضرا" یعنی اس نے اس کو ترو تازہ لیا یا بلا قیمت لیا۔ المضيرة: ایک قسم کا کھانا جو کھنے دودھ سے تیار کیا جاتا ہے۔ المضارة من اللبن: کھنے دودھ کا پانی۔ مضغ (ف ن) مضغا الطعام: چبانا۔ مضغة الفئال او المضومة: دیر تک لڑنا یا جھگڑنا۔ أمضغه ومضغه: چبوانا۔ أمضغ القمر: بچل کا چبانے کے قابل ہونا۔ أمضغ اللحم: گوشت کا لذیذ ہونا اور کھایا جانا۔ المضاع: چبانا۔ (والمضاعة) جو چیز چبائی جائے۔ کہا جاتا ہے "مأعندنا مضاع" ہمارے پاس چبانے کے لئے کوئی چیز نہیں۔ المضاعة: چباتے چباتے آخر میں جو منہ میں باقی رہ جائے۔ المضایع: فنا۔ مضغ المضغعة: گوشت وغیرہ کا کھرا۔ مضغ ومضغ الأمور والجرأحات: معمولی اور	چھوٹے چھوٹے کام۔ المضیغة: ہڈی سے لگا ہوا گوشت۔ جزا۔ عضل۔ مضغ ومضایع. المضاعة: بے وقوف۔ بہت چبانے والا۔ المضایغان والمضایغان: دونوں چیزے۔ المواضع: ڈاڑھیں۔ مضمض مضمضة ومضامضا ومضامضا الماء فی فیه: پانی کو منہ میں پھرانا۔ السوب وغیرہ: دھونا۔ وتحتمض النعاس فی عینہ: اونگھ کا اثر آنکھوں میں ہونا۔ تمضمض الکلب فی الترہ: کسی کے پیچھے کتے کا بھونکنا۔ المضمض: جلن۔ ہلکا پھلکا مرو۔ نمند۔ المضمضة: مسم۔ سانپ وغیرہ کی آواز۔ کلی۔ مضی يمضی ومضا يمضو مضوا ومضیا الشئ: گزر جانا۔ مضوا) منیله ولنیله: مرنا۔ مضی يمضی ويمضو مضاء ومضوا عملی الأمر: مداومت کرنا۔ جاری کرنا اور پورا کرنا۔ جس امر کو پورا کیا جائے اس کو مضو علیہ: کہتے ہیں۔ علی البیع: بیع کو جائز رکھنا۔ مضی مضاء السیف: کاٹنا۔ أمضی أمضاء الأمر: انجام کو پہنچانا۔ کہا جاتا ہے "أمضی الحاکم حکمہ" حاکم نے اپنے فیصلہ کو نافذ کیا۔ البیع: بیع کو جائز رکھنا اور اسی سے ہے "أمضاء الشکوک و الرماہل" یعنی دستخط کرنا اور کہا جاتا ہے "أمضیت لہ" یعنی میں نے اس کو تھوڑی تلخی پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ انتہائی تلخی میں مبتلا ہو گیا پھر ایسے موقع پر اس کو سزا دی گئی کہ اس کے لئے کوئی عذر باقی نہ رہا۔ مضی تمضیة الأمر: نافذ کرنا۔ تمضی الأمر: نافذ ہونا۔ پورا ہونا۔ الرجل: آگے بڑھنا۔ المضوء: آگے بڑھنا۔ کہا جاتا ہے "مضی
--	---

علی مضواہ" وہ اپنی پیش قدمی میں آگے
رہا۔
الماضی: فنا۔ گزشتہ زمانہ۔ عند النحاة:
وہ فعل جو گزرتے ہوئے زمانہ پر وضع
دلایت کرے الماضی: تلواری۔ مضواض:
المضاء: پختہ ارادہ والا۔ کہا جاتا ہے "أنت
مضاء علی ما عزمنا علیہ" تم اپنے
ارادہ کو پورا کرنے والے ہو۔
مط (ن) مط الشئ: پھیلانا۔ الدلوی:
ڈول کھینچنا۔ خذہ: تکبر کرنا۔ کہا جاتا ہے
"مط شدقہ" اس نے گفتگو میں چرب زبانی
کی۔
الطابیر جناحیہ: پرندہ کا بازو پھیلانا۔
خطه او خطوة: دراز کرنا۔
مسطط الشئ: سخت کھینچنا۔ الرجل: کمالی
دینا۔
تمسطط: کھینچنا۔ کہا جاتا ہے "هذا دبس
یتمسطط لخطوتہ" یہ شیرہ ہے جو گاڑھا
ہونے کی وجہ سے چمکتا ہے۔ فی الکلام:
رنگ برنگ کی گفتگو کرنا۔
المطاط: اونٹ کا گاڑھا کھنا دودھ۔
المطاط: ربڑ۔
المطیطی والمطیطاء والمطیطاء:
مغروانہ چال۔ چلنے میں دونوں ہاتھ کا
پھیلانا۔
المطیطة: گدلا۔ گاڑھا پانی۔ رج مطانط۔
مط (ف) مط الجارية: جماع کرنا۔
مطح (ف) مطح بیدہ: مارنا۔
تمطح ومنتطح الوادی: بہت اور بلند پانی
والی ہونا۔
مطح (ف) مطح العسل: شہد چاٹنا۔
الرجل بیدہ: مارنا۔ عرضة: آبرو کو
داندار کرنا۔
المطایح: فنا۔ ست رفتار گھوڑا۔
المطاخ: بے وقوف۔ مغرور۔ نیش گو۔ جھوٹا
اور چھوٹے سے کہا جاتا ہے "مطح مطح اور
مطح مطح یعنی تیرا قول باطل ہے۔

مَطْرَثٌ (ن) مَطْرًا وَمَطْرًا اَمْطَرَتْ
السَّمَاءُ: بَارَشَ هَوْنًا..... السَّمَاءُ الْقَوْمَ: پانی
برسانا اور اَمْطَرَ الرَّجُلُ: پیشانی پر پسینہ والا
ہونا۔ بَارَشَ مِثْلَ بَرْنِی: کہا جاتا ہے "كَلَّمْتُ
فَلَانًا فَاَمْطَرَ اِسْتَمْطَرَ" میں نے فلاں سے
گفتگو کی تو اس نے سر جھکا لیا اور اس کی
پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ اَمْطَرَ الْمَكَانَ: بَارَشَ
شده: پانا۔

مَطْرٌ (ن) مَطْرُوزًا وَمَطْرًا، الْفَرَسُ:
گھوڑے کا تیز دوڑنا..... الْقِرْبَةُ: مٹک کو
بھرتا۔ الطَّيْرُ: پرندہ کا تیزی سے اترنا۔
کہا جاتا ہے "ذَهَبَ وَلَا اَذْرَى مِنْ
مَطْرِيه" وہ گیا اور میں نہیں جانتا کہ اس کو
کس نے پکڑ لیا (..... مَطْرُوزًا) فِي الْاَرْضِ:
جانا..... الْعَبْدُ: بھاگنا..... الشَّيْءُ: بلند ہونا۔

تَمْطَرُ: بَارَشَ کے سامنے ہونا۔ بَارَشَ طَلَبَ
کرنا..... الرَّجُلُ فِي الْاَرْضِ: جانا.....
الطَّيْرُ: پرندہ کا تیزی سے اترنا..... بِه
فَرَسُهُ: لے کے تیز دوڑنا۔ تَمْطَرَتْ
الْخَيْلُ: گھوڑوں کا تیزی سے آنا اور سبقت
کی کوشش کرنا۔

اِسْتَمْطَرَ اللّٰهَ: بَارَشَ طَلَبَ کرنا..... الْمَكَانَ
او الزُّرْعَ: بَارَشَ کے قابل ہونا..... الرَّجُلُ:
بَارَشَ سے چھینا۔ خَامُوشٌ رَهْنَا..... ثُنُونَةُ:
برسانی پینٹا۔ اِسْتَمْطَرَ فَلَانًا وَمِنْ فَلَانٍ:
عنایت و کرم کی التجا کرنا..... لِسِيَاطِ:
کوڑوں کے درپے ہونا اور صبر کرنا۔ کہا جاتا
ہے "لَا تَسْتَمْطِرِ الْخَيْلُ" گھوڑوں کے
درپے مت ہو۔

النَّظَرُ: بَارَشَ نَظَرَ اَمْطَرَ:
النَّظَرُ: چھینا کا خوش۔ عادت۔

الْمَطْرَسَةُ: بَارَشَ کی ایک بو چھانڈ.....
وَالْمَطْرَسَةُ وَالْمَطْرَسَةُ: عادت۔ الْمَطْرَسَةُ:
مٹک۔ حَوْشٌ کا وسط۔

الْمَطَارُ وَالْمَطَارَةُ مِنَ الْاَبَارِ: چوڑے منہ کا
کنواں۔

الْمَطَارُ مِنَ الْخَيْلِ: بہت تیز رفتار گھوڑا۔

الْمَطَرُ وَالْمَطَارُ وَالْمَطِيرُ: بَارَشَ والا۔
الْمَطِيرُ: جس پر بارش ہو۔

سَحَابٌ مِمَّنَّطَرٌ: موسلا دھار برسنے والا
بادل۔

الْمِمْطَرُ وَالْمِمْطَرَةُ: برسائی۔ عوام
مَشْمُوعٌ کہتے ہیں۔

الْمُنْمَطِرُ: بادل جو تھوڑی دیر برے اور پھر
رک جائے۔

السُّمْمَطِرُ: تیز رفتار گھوڑا۔ تیز رفتار گھوڑے
کا سوار۔ بَارَشَ کے بعد سیر کو نکلنے والا۔ کہا
جاتا ہے "خَسِرَ مِمْمَطِرًا" یعنی بَارَشَ کے
بعد سیر کو چلا۔

السُّمْمَطِرُ: فا۔ بَارَشَ کا منتظر۔
السُّنْمَطِرُ: مفتح۔ بَارَشَ کے لئے کھلا
میدان۔

السَّمَطِرَانُ وَالْمِطْرَانُ: پادریوں کا ایک بڑا
عہدہ جہ مطارینہ وَمَطَارِيْنُ.

مَطْرٌ (ن) مَطْرًا الْجَارِيَّةُ: جماع کرنا۔
مَطْسٌ (ض) مَطْسًا الْقَدْرَةُ: یکبارگی
پانچا نہ کرنا..... وَجْهَةٌ: چہرہ پر ٹھانچہ مارنا۔

مَطَعٌ (ف) مَطْعًا وَمَطُوعًا فِي الْاَرْضِ:
جانا اور گم ہونا..... الشَّيْءُ: اگلے دانتوں سے
کھانا۔

الْمَطَاعُ: فا۔ خالص۔ کہا جاتا ہے "بِطَاعِ
مَطَاعٍ نَاطِعٍ" خالص سفید۔

تَمْطَقُ الطَّعَامَ: چکھنا..... الرَّجُلُ: چٹا رہ
لینا۔ تَمْطَقَتِ الْقَوْسُ: کمان کا چھٹنا۔

الْمَطْقَةُ: مٹھاس۔ کہا جاتا ہے "تَمْوَهُمْ لَهُ
مَطْقَةً" ان کے چھوڑنے میں مٹھاس ہے کہ
کھانے والے چٹا رہ لیتا ہے۔

مَطْلٌ (ن) مَطْلًا السَّجْلُ: درختی ٹانہ
الْحَدِيدُ: لوہے کو کوٹ کے بڑھانا۔ کھلا کر
چوڑا کرنا..... حَقُّهُ وَبِحَقِّهِ: نال منول کرنا

.....
الَّذِيْنَ قَرَضَ كِي ادا نہیں میں تاخیر کرنا۔
اِسْتَطَلَّ حَقَّهُ: نال منول کرنا۔ اِسْتَطَلَّ
النَّبَاتُ: لمبا اور گھٹان ہونا۔

اِمْتَلَّ الشَّيْءُ: دراز ہونا۔

الْمُطَلَّةُ وَالْمُطَلَّةُ: حَوْشٌ کی تہ میں بقیہ
پانی۔

الْمُطَلَّةُ: تھوڑا سا پانی وغیرہ جو مٹک سے
گرے۔

المطالة: لوہے کے پچھلے کانے کا پیشہ۔
المطال: لوہے کو پچھلے اور چوڑا کرنے
والا (..... والمطول) بہت ٹالنے والا۔

المطيلة: کوٹ پیٹ کے چوڑا کیا ہوا لوہا۔
المفطل: چور۔ لوہا کا گھن۔

المسطلول: مفتح۔ لمبا کیا ہوا۔ پھیلا یا ہوا۔
ٹالا ہوا۔

تمطمط: گفتگو یا لکھنے میں سستی کرنا۔
تمطمط الماء: گاڑھا ہونا۔

مطًا يَمْطُو مَطْوًا: چلنے میں جلدی کرنا۔
بالقوم: دیر تک چلانا۔

مطِي يَمْطِي مَطًا: پھیلانا اور لمبا ہونا۔
امطى الدابة: جانور پر سوار ہونا۔ سواری
بنانا۔ امطاء الدابة: سوار کرنا۔

امطى. الدابة: سوار ہونا۔
تمطى: پھیلانا اور لمبا ہونا..... الرَّجُلُ: چلنے
میں ہاتھوں کو پھیلانا اور اگلڑائی لینا۔

المط: مٹس۔ پینہ۔ حشیر مَطْوَانٌ ج اطفاء.
المطو والمطو: شاخ جس کو چیر کر گٹھا
باندھا جائے۔ ج مطاء و اطفاء و مطي
المطو اسٹھی۔ نظیر۔ کھجور کا گٹھا۔ چینا کی
بالی ج مطاء.

المطوأة: بروزن غلوانہ: اگلڑائی۔ لمبائی۔
المطوأة: مطا: کا اسم مرہ۔ کہا جاتا ہے
"مَضَتْ حَطْوَةً مِنَ اللَّيْلِ" رات کا کچھ حصہ
گزر گیا۔

المطية: سواری۔ مذکر مؤنث دونوں کے
لئے ہے بعیر اور ناقہ: دونوں کو مٹھیہ کہتے
ہیں۔ ج مطايا و مطي.

الامطى: سیدھے لمبے قد والا۔ ایک قسم گوہ
کی جو کھایا جاتا ہے۔

مطأة (ن) مطا: ملامت کرنا۔

مَاضِه مِظَاظًا وَمُطَاظَةً: جھگڑا کرنا۔ گالی دینا۔ مَاضِ الْخُصْمِ: چپے رہنا۔

أَمَظَةً: گالی دینا۔

تَمَاطَلُوا: یا ہم جھگڑنا۔ یا ہم گالی گلوچ کرنا۔

الْمِطَّ: مِص۔ جھنگلی انار کا درخت۔ ایک قسم کے گوند کا سرخ رنگ کا عصارہ۔

الْمِطَاظَةُ: سختی و بد مزاجی۔

مِطَّعٌ (ف) مِطَّعًا وَمِطَّعٌ الْوَقْرُ: تانت کو خشک اور چمکیلا کرنا۔

تَمِطَّعُ الْمَأْكُولُ: سب کا سب چاٹ جانا۔

..... الْمِطَّلُ: سایہ ڈھونڈتے پھرتا..... فِی

الرَّوْعِي: چرانے کے وقت سے دیر کرنا۔

الْمِطَّعَةُ: گھاس کا بقرہ۔

الْمِطَّعَةُ: باقی ماندہ کھنکھو۔

مِيعٌ وَوَعٌ: اسم ہے جو مضاف ہو کر مستعمل ہے اور ظرف ہے اور اس وقت اس کے تین

معانی ہوتے ہیں۔

(۱) اجتماع اور مصاحبت جیسے "اللَّهُ مَعَكُمْ" اور أَفْعَلُ هَذَا مَعَ هَذَا۔

(۲) وقت اجتماع۔ جیسے جِئْتُكَ مَعَ الْعَصْرِ۔

(۳) بمعنی مندرجہ جنتٌ مِنْ مَعَ الْقَوْمِ اور بلا مضاف ہونے بھی مستعمل ہے اس وقت

اس پر تین آتی ہے اور حال واقع ہوتا ہے اور یہی شنیہ اور جمع کے لئے بھی آتا ہے۔

جیسے "جَاءَ زَيْدٌ وَعَشْرَتُهُ مَعًا وَجِئْنَا مَعًا" اور نسبت کے لئے قَسِيٌّ اور اتنی سے واو

معیت ہے۔

مِيعٌ (ن) مَعَا الشَّخْمُ: چرنی کا پھلنا۔

مِعْتٌ (ف) مِعْتًا الشَّيْءُ: ملنا دلنا۔

مِغِيجٌ (ف) مِغِيجًا الْفَرَسُ: نرمی کے ساتھ تیز رفتار ہونا۔ مِغِيجٌ مِغِيجٌ: مِغِيجٌ الْبَحْرُ:

سمندر کا موج مارنا..... السَّيْلُ: سیلاب کا تیز بہنا..... بِالْقَلَمِ فِي الدَّوَاةِ: قلم کو روشنائی

کتنے کے لئے دوات میں بلانا..... الْفَصِيلُ: حُرُوعٌ أَمِيهٌ: اونٹ کے بچہ کا دودھ اتارنے

کے لئے تھن پر سر مارنا اور کہا جاتا ہے

..... الْمَعْدَةُ: پیٹ۔ پیلو۔

السَّمْعِدَةُ وَالْمَعْدَةُ: آنتوں میں بیچنے سے پہلے کھانا ہضم ہونے کی جگہ۔ ج

مَعْدُو مَعْدٌ.

الْمُتَمَعِدَةُ: مِنَ الرُّطْبِ: تر و تازہ۔

"الرَّيْحُ تَمِيعٌ فِي النَّبَاتِ" ہوا پودوں کو ادھر ادھر کر رہی ہے..... الْجَارِيَةُ: جماع

کرنا..... الرَّجُلُ: جنگ کرنا۔ تلوار مارنا۔

مُعْجِبَتِ النَّبَاتِ: لمبھانا۔

تَمِيعُ السَّيْلِ أَوْ الْخَيْطِ: سیلاب یا سانپ کا بل کھاتے ہوئے چلنا۔

الْمِيعُجُ: مِيعٌ۔ اضطراب۔ مقاتلہ۔ نرمی سے ہوا کا چلنا۔

الْمِعْجَةُ: مِعْجٌ: کا اسم مرۃ۔ جوانی کا آغاز۔ کہا جاتا ہے "فَعَمِلَ ذَلِكَ فِي مِعْجَةِ شَبَابِهِ" اس نے یہ اپنی جوانی کے شروع میں کیا۔

الْمِعْجُجُ: اسم مبالغہ۔ حِمَارٌ مِعْجُجٌ: دوڑنے میں ادھر ادھر ہونے والا گدھا۔

رِيحٌ مِعْجُوجٌ: تیز چلنے والی ہوا۔

فَرَسٌ مِعْجُوجٌ: نرمی کے ساتھ تیز رفتار گھوڑا۔

مِعْدٌ (ف) مِعْدًا الشَّيْءُ: چھین لینا۔ اچک لینا۔ لے جانا..... الشَّيْءُ: جلدی سے کھینچنا

..... الرَّمِيحُ: مرکز سے کھینچنا..... فِی

الْأَرْضِ: دور تک جانا..... الشَّيْءُ: تباہ ہونا..... لَحْمَةٌ: گوشت کو اگلے دانتوں سے کھانا

..... السَّيْفُ: تلوار سوختا..... الرَّجُلُ: معدہ پر مارنا..... مِعْدًا وَمِعْدًا: بالشَّيْءِ لے جانا..... السَّدَنُ وَبِهَا: ذول کھینچنا اور کونو میں سے نکالنا۔

مِعْدَةٌ: درد معدہ والا ہونا۔ صفت مِعْدُوْدٌ.

إِسْتَمْعَدَ الشَّيْءُ: چھین لینا۔ اچک لینا۔ لے جانا۔

السَّمْعِدُ: مِص۔ مونا۔ نرم سبزی۔ تر و تازہ پھل۔ تیز رفتار اونٹ۔ کہا جاتا ہے "سَالَهُ تَعَدُّ وَلَا مَعْدَةَ" اس کے پاس قلیل ہے۔

کثیر۔

الْمَعْدَةُ: پیٹ۔ پیلو۔

السَّمْعِدَةُ وَالْمَعْدَةُ: آنتوں میں بیچنے سے پہلے کھانا ہضم ہونے کی جگہ۔ ج

مَعْدُو مَعْدٌ.

الْمُتَمَعِدَةُ: مِنَ الرُّطْبِ: تر و تازہ۔

تَمِيعَةُ الْغُلَامِ: لڑکے کا جوان ہونا..... السَّرِيضُ: بیمار کا صحت یاب ہونا..... الْمَهْزُؤُلُ: مونا ہونے لگنا۔

مِعِزٌ (س) مِعْزًا الرَّيْشُ أَوْ الشَّعْرُ: بال کم ہونا..... النَّاصِيَةُ: پیشانی کے سب بال گر جانا..... السَّطْفُرُ: ناخن کا چوٹ وغیرہ کتنے سے گر جانا۔

مَعْرٌ: مَفْلَسٌ ہونا..... وَجْهَةٌ: چہرہ کا حصہ سے بدلنا۔

أَشْعَرُ الرَّيْشِ أَوْ الشَّعْرُ: بال کم ہونا..... الرَّجُلُ: جماع ہو جانا..... أَمْعَرَتِ الْأَرْضُ: کم نباتات والی ہونا..... السَّرْجُلُ: نال چھین کر فقیر بنا دینا۔

الْقَوْمُ: قوط زدہ ہونا۔ بے سبزی والی زمین میں پڑنا..... السَّوْأَشِيُّ الْأَرْضِ: چر کر صاف کر دینا۔

تَمِيعَةٌ وَجْهَةٌ: چیز سے کارنگ بدل جانا..... رَانَةٌ: سر کے بال گر جانا۔

الْمِعْزَاةُ: بدخلتی۔ غصہ کی وجہ سے ترش روی۔

السَّجْرُ: کم بال یا کم پروں والا۔ چوٹ کتنے سے گرنے والا۔ ناخن۔ بے برکت پھیل مرد۔ کم گوشت والا۔ أَرْضٌ مِعْزَرَةٌ: کم

نباتات والی زمین۔

الْأَمْعَرُ: کم بال والا۔ کم نباتات والی جگہ۔ چیز سے کاموزہ۔ جس کے بال گر گئے ہوں۔ مَوْنَسٌ مِعْزَاءٌ ج مِعْزَرٌ: ناصیہ

مِعْزَاءٌ: بے بال کی پیشانی۔

الْمِعْزُورُ: مِيعٌ۔ غصہ کی وجہ سے ترش روی۔

مِعِزٌ (س) مِعْزًا الشَّيْءُ: سخت ہونا۔ صفت مِعْزٌ وَصَاعِزٌ..... الرَّجُلُ: اپنے کام میں کوشش کرنا..... وَأَمْعَزَ الرَّجُلُ: بہت بکریوں والا ہونا۔

مِعْزٌ (ف) مِعْزًا. الرَّاعِي الْمِعْزِي عَنِ الضَّانِ: بکریوں کو بھیلوں سے جدا کرنا۔

تَمِيعٌ وَجْهَةٌ: چہرہ کا سکڑنا..... الْبَعِيْرُ: تیز دوڑنا۔

إِسْتَمْعَزَ: کام میں کوشش کرنا۔ کہا جاتا ہے مَا

افعضه من رجلی: یعنی کس قدر قوی اور سخت ہے۔ "ومسا افعض زایہ" وہ کس قدر مضبوط رائے والا ہے۔

الضغز والمغز: بکری۔ یہ اسم جنس ہے۔ واحد ماعربز افغز ومغیز۔ المغز: زمین کی تختی۔

الامغوزن اصاعیز واصاعیز والمغیز والمغزى والمغاز: بکری۔ الامغوز میں سے چالیس تک ہرنوں کی جماعت۔

الصاعیز: فا۔ معز کا واحد (جیسے صاحب وحب) یعنی بکرا بکری۔ اور بھی بکری کو صاعیز کہتے ہیں (جمع صواعیز۔ الصاعیز والصعز والمسنمیز اے کام میں کوشش کرنے والا۔ والصاعیز: بکری۔ بکری کی کھال مرد تیز طبیعت چالاک دوسروں کو منع کرنے والا۔

المغزاة: بکری۔ الامغیز: بہت نکر پتھر والی سخت جگہ مونت مغزاء معز وغزوات واصاعیز۔

المغاز: بکری والا۔ بکریوں کا چرواہا۔ المغزوی: بخیل جو مال جمع کرے اور مسائل کو منع کرے۔

رجل منغز: خلقتا سخت کھال والا مرد۔ مفس (ف) مغسا الشی: سخت مانا۔ الرجل: بے عزتی کرنا۔ نیزہ مارنا۔

المغس: دودھ۔ حرکت۔ المغاس والمغیس: لڑائی میں پیش قدمی کرنے والا۔

معض (س) معضا الرجل: موج والا ہونا یا بہت چلنے سے پھوٹوں میں درد والا ہونا۔ صفت معض ومعیض۔

تمغص بطنه: پیٹ کا درد مند ہونا۔ الرجل: شرمندہ ہونا۔

معض (س) معضا وامتعص من الأمر: غضبناک ہونا اور کام کا دشوار ہونا۔ صفت معض ومعیض۔

معضه وامعضه: غضبناک کرنا۔ درد مند

کرنا۔ امعض الشی: جلاانا۔

مغط (ف) مغط الشی: کھینچنا۔

الریئس: پراکھیرنا۔ بحق فلان: مالکانا۔ وامتعط الشیف: تلوار سونتنا۔ مغط الجاریة: جماع کرنا۔ الجسد: جسم کا بے بال ہونا۔

مغط (س) مغطا وتمغط الذئب: بھیڑیے کا گرے ہوئے بال والا ہونا۔ صفت مغط وامغط۔

تمغط وامغط وانمغط وامتعط الشفر: بیماری کی وجہ سے بال گر جانا۔ امغط وامتعط النهار: دن کا دراز ہونا۔ امغط رمحه: نیزہ کھینچنا۔

السعط والامعط: جسم پر بے بال والا۔ مونت مغطاء معط۔ ولص امغط: بھیڑیے کے مشابہ چور۔ زمل امغط: بغیر نباتات کے ریگستان ارض مغطاء: بغیر

نباتات والی زمین۔ مغقه (ف) مغقا: ڈگڈگا کے پنا۔ معق السیل الارض: سیلاب کا زمین کو بہا لے جانا۔

مغق مغقا. الرجل: فاسد معدہ والا ہونا۔ مغق (ک) مغقا ومعاقاة النهار: گہرا ہونا۔ صفت مغیق مونت معیقة۔

امغق البئر: کنواں گہرا کھودنا۔ تمغق: گہرا ہونا۔ کہا جاتا ہے "تمغق الرجل علینا" یعنی اس نے ہم سے بدخلتی کی۔

المغق والمغق والمغق: گہرائی۔ ج امغاق وامغاق وامغیق. المغق: بدخلتی۔ بے نباتات والی زمین۔

مغک (ف) مغکا الشی: ملانا۔ الرجل: ذلیل کرنا۔ بے عزتی کرنا۔ فلانا فی الخصومة: غالب آنا۔ مغکة دینہ وبدینہ: قرض کی ادائیگی کو ملانا۔

مغک (ک) مغکا: بے وقوف ہونا۔ مغکة: زمین میں لوٹانا۔

تمغک: زمین میں لوٹنا۔ صاعکة: بڈینہ: قرض کی ادائیگی کو ملانا۔

مغک (ک) مغکا: بے وقوف ہونا۔ مغکة: زمین میں لوٹانا۔

تمغک: زمین میں لوٹنا۔

صاعکة صاعکة بدینہ: قرض کی ادائیگی کو ملانا۔

السبع: بے وقوف۔ سخت بھگڑالو۔ والمصعک: قرض کو ملانے والا۔

المغکرة: مشہور کھانے کا نام۔ ابل مغکی: بہت اونٹ۔

المغکوکاء: گردوغبار۔ شور و غوغا۔ بدی۔ مغل (ف) مغلا الشی: چھین لینا۔ ایک لینا۔ الخشیة: ککڑی چیرنا۔ افرة: کام کو ساقیوں سے پہلے کر لینا۔ الرجل: تیز چلنا۔ السحار: گدھے کو خسی کرنا۔ مغلہ

وامغله عن الشی: جلدی سے بنا دینا۔ اغتل الرجل: پیے درپے نیزہ مارنا۔

المجل من الناس: پھر تیار جلد باز۔ المغل: مفس۔ کہا جاتا ہے "فالمک منه مغل" تیرے لئے ضروری ہے۔

المغالة: بدی۔ حصار منغول: غصی کیا ہوا گدھا۔

مغصع: جلدی کام کرنا۔ الشی المخترق: جلتی ہوئی چیز سے آواز لگانا۔ السقوم: سخت جنگ کرنا۔ سخت گرمی میں چلنا۔ الرجل: گفتگو میں لفظ مع اکثر بولنا۔

الساء المطر علی الارض: سخت بارش گرانا اور زمین کو صاف کر دینا۔

المغصع: تیز خاطر عورت اور کہا جاتا ہے "هنو ذو مغصع" وہ امور پر صبر کرنے والا ہے۔

المغصعة: مفس۔ پانس وغیرہ چلنے کی آواز۔ لڑائی میں بہادروں کا شور۔ گرمی کی شدت۔

مغصع المغامع: لڑائیاں اور نشتے۔ المغصعی: جس کی اپنی کوئی رائے نہ ہو اور ہر ایک سے کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔

المغصعان والمغصعانی من الایام: سخت گرم۔ المغصعان: سخت گرمی یا سردی۔ کہا جاتا ہے "جاء فی مغصعان الصیف" یعنی

وہ سخت گرمی میں آیا۔ وَفِئِ مَضْمَعَانَ
السَّيَاءِ: یعنی وہ سخت جاڑے میں آیا۔

مَعْنُ (ن) مَعْنَا النَّعْمَةِ: نعمت کی ناشکری
کرنا۔ بِالْحَقِّ: حق کا انکار کرنا۔ حَقُّ كَا
اِقْرَارُ كَرْنَا۔ (ضد)

مَعْنُ (ف) مَعْنَا وَمَعْنُ (ك)
مَعْنُوْنَا الْمَاءِ: آہستہ آہستہ بہنا۔ صَفْتِ مَعْنِي
مَعْنُ الْقَرَسِ: گھوڑے کا دور تک دوڑنا
۔ الْمَطَرُ الْأَرْضِ: پے درپے بارش ہو کر
سیراب کر دینا۔

مَعْنُ (س) مَعْنَا الْمَكَانِ أَوْ النَّبْتِ: پانی
سے سیراب ہونا۔

أَمَعْنُ فِي الطَّلَبِ: ڈھونڈنے میں بہت
میاں ڈرنا۔ فِي الْأَمْرِ: معاملے کی گہرائی
میں پہنچنا۔

الضَّبُّ فِي جُحْرِهِ: گوہ کا سوراخ کے
انتہائی حصے میں غالب ہونا۔ الْقَرَسُ:
گھوڑے کا دوڑنے میں دور دور تک پہنچنا

۔ النَّظَرُ فِي الْأَمْرِ: نہایت غور کے ساتھ
سوچنا۔ السَّوَادِيُّ: زیادہ بہتے ہوئے پانی
والی ہونا۔ مَالُهُ: بہت ہونا۔ كَمْ هُوَا:

بِالْحَقِّ: حق کا انکار کے بعد اقرار کرنا۔ اِنْكَارُ
كَرْنَا۔ الْمَاءِ: پانی کا آہستہ آہستہ بہنا
۔ فَلَانُ الْمَاءِ: پانی بہانا۔ أَمَعْنَتْ
الْأَرْضُ: زمین کا سیراب ہونا۔

تَمَعْنُ: ذلیل و حقیر ہونا۔

الْمَعْنُ: مہم۔ بَرَفْعُ أَثْمَانِهِ كِي جِزْر۔ بہت
کم۔ آسان۔ لہا۔ کوتاہ۔ اِدْوَجُوِي۔ سرخ
کھال جو ٹوکری وغیرہ پر لگائی جاتی ہے۔
بہت مال والا۔ کم مال والا۔ ذَلْتُ۔ کھلے
میدان کا پانی۔

الْمَعْنَةُ: معن کا اسم مرثہ۔ کہا جاتا ہے "مائلہ
سَعْنَةٌ وَلَا مَعْنَةَ" یعنی اس کے پاس کچھ
نہیں۔

الْمَعْنِيُّ: بہت مال والا۔ کم مال والا۔

الْمَعْنَانُ: منزل۔

الْمَعْنُونُ: بارش۔ پانی۔ ہر وہ خانگی سامان

جس سے خود نفع اٹھایا جائے اور دوسروں کو
عاریت پر دیا جائے (جیسے ہانڈی چچھڑاؤں

رسی وغیرہ وغیرہ) بھلائی۔ فرمانبرداری۔
زکوٰۃ۔ عِنْدَ الْعَامَةِ: کاغذ کا دستہ یا رقم۔

السَّعِينُ: بہتا ہوا پانی اور کہا جاتا ہے "سَاءٌ
مَعِينٌ" جاری پانی "سِقَاءٌ مَعِينٌ" بہتے ہوئے
پانی والا مشکیزہ۔ مَجُّ مَعْنَاتٍ وَمَعْنُ.

السُّغْنَاتُ وَالْمَعْنَانُ: پانی پینے کی جگہ وادی
میں پانی کے نالے۔

كَلَامًا مَعْنُونًا: گھاس جس میں پانی جاری ہو
زَوْطٌ مَعْنُونٌ: جاری پانی سے سیراب کیا
ہوا باغ۔

تَمَعْنِي يَتَمَعْنِي: معنی سمجھنا۔ معنی بیان کرنا۔
مَعْنَا يَمَعْنُوْ مَعْنَا السُّنُوْرُ: بی کامیابیوں
میاؤں کرنا۔

أَمَعْنِي النَّخْلُ: پکنے کے بعد کچھ خشک کھجوروں
والا ہونا۔ الْبُسْرُ: گلدرد کھجور کا خوش مزہ
ہونا۔

تَمَعْنِي السِّقَاءُ: مشکیزہ کا تان جانا۔
الشَّرْبِيْنُ النَّاسِ: برائی کا پھیلنا۔

السُّغُوْرُ: تر کھجور جو کچھ خشک ہونے لگے۔
اونٹ کے نچلے ہونٹ کی پھین۔

الْمَعْنِيُّ وَالْمَعْنِيُّ مَعْنَاءُ. وَالْمَعْنَاءُ مَعْنِيَّةٌ
آنت مذکر ہے اور کبھی مؤنث بھی استعمال
کیا جاتا ہے۔

مَعْنُ (ف) مَعْنَا الدَّوَاءِ فِي الْمَاءِ: دوا کو
پانی میں نرم کرنا۔ السَّرْجَلُ: غیر تکلیف دہ

مارنا۔ پچھاڑنا۔ کہا جاتا ہے "مَعْنَتْهُمُ
الْحَضِي" ان کو بخار آ گیا۔ مَعْنَةُ فِي الْمَاءِ:
پانی میں ڈبونا۔ مَعْنُ الشَّيْ: گڈ گڈ کرنا۔

عَرَضُ فَلَانٍ: عیب لگانا۔

مُعْتُ الرَّجُلُ: بخار زدہ ہونا۔

مَاعْنَةُ مَعْنَانًا وَمَاعْنَةُ: بھنگا کرنا۔

السُّغْتُ: مہم۔ انگلیوں سے مل کر نرم کرنا۔
برائی۔ مَقَاتِلُهُ مَعْنَاتٌ.

الْمَعْنُ: سخت قسم کا پہلو ان۔

السَّعِيْبُ: گھاس جس کو بارش نے بچھا دیا

ہو۔ شَرِيْر مَرْد۔

السُّغْنَاتُ: چوڑے پتوں اور سفید پھولوں کا
ایک درخت۔

السُّغْنُوْتُ: بخار زدہ۔ بارش سے بچھی ہوئی
گھاس۔

مَعْنَجُ (ن) مَعْنَجَا الرَّجُلُ: دوڑنا۔ چلنا۔

مَعْنَدُ (ف) مَعْنَدَا الشَّيْ: چوستا۔

الْفَصِيْلُ أُمَّةٌ: اونٹ کے بچہ کا اپنی ماں کا
دودھ پینا۔ السَّبَاتُ: بنا ت لہی ہونا۔

الرَّجُلُ فِئِي عَيْشِهِ: آسودہ زندگی گزارنا
۔ شَعْرُهُ: بال کھیرنا۔ الْقَيْشُ الْبَدْنُ:
سونا تازہ کر دینا۔ فَلَانٌ: کامل جوان ہونا

۔ الْجَارِيَةُ: جماع کرنا۔

مَعْنَدُ (ف) وَمَعْنَدُ (س) مَعْنَدَا الْبَدْنُ:
بدن کا سونا ہونا۔

أَمَعْنَدُ: دیر تک جینا۔ الصَّبِيُّ: بچے کو دودھ
پلانا۔

الْمَعْنَدُ: مہم۔ عَيْشُ مَعْنَدٌ: آسودہ زندگی۔

الْمَعْنَدُ: ببول کا گوند پیری کا گوند۔ بِيْرُجِ
السُّمِّ (ایک دوا کا نام) اور بقول بعض

بیلین۔ ایک پھل جو گلڑی کے مشابہ ہوتا
ہے۔ ایک درخت کا نام جس کے پتے

باریک نازک اور لمبے ہوتے ہیں اور
درخت پر لپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ بڑا

ڈول۔ گھوڑے کی پیشانی پر سفیدی کی جگہ۔
ہر موٹی لہی چیز۔ سونا اونٹ۔

مَعْنَرُ (ف) مَعْنَرَا فِي الْبِلَادِ: تیز جانا۔ بہ
بِعِزَّةٍ: لے کے تیز دوڑنا۔

مَعْنَرُ الثُّوْبِ: کپڑے کو گھیر دینا۔ رَنَنًا۔
أَمْعُرَةٌ بِالسُّهْمِ: آرا پار کر دینا۔ أَمْعُرَتِ
السَّاقَةِ: اونٹنی کا مرض کی وجہ سے سرخ دودھ

والی ہونا۔ صفت مُصْفَرُ۔

الْمَعْرَةُ وَالْمَعْرَةُ: گھرو۔

الْمَعْرَةُ وَالْمَعْرَةُ: غیر خالص سرخی کا رنگ۔
الْمَعْرَاةُ: دیکھنا مادہ غور۔

الْأَمْعُرُ: غیر خالص سرخ رنگ والا۔ وہ شخص
جس کے چہرے میں خالص سفیدی میں سرخی

جھلکتی ہو۔

لَبَنٌ مَغْيِيزٌ: سرخ دودھ خون ملا ہوا۔

الْمَغْرَقَةُ: وہ زمین جہاں سے گرو نکلے۔

مَغْسٌ (ف) مَغْسًا بِيَدِهِ: چھونا.....

بِالرُّمَحِ: نیزہ مارنا..... الْمَرْأَةُ: عورت سے جماع کرنا۔

مَغْسٌ: آنتوں میں درد والا ہونا۔

مَغِيصٌ (س) مَغِيصًا وَمُغِيصٌ مَغِيصًا:

آنتوں میں درد اور مزور ہونا۔ صفت منغوص۔

أَمَغَصَةٌ: مزور اور ایشٹھن والا کرنا۔

تَمَغِصٌ بِطَنُهُ: مزور اور ایشٹھن لائق ہونا۔

دردناک کرنا۔ کہا جاتا ہے "تَمَغِصٌ بَطْنِي"

یعنی درد میں مبتلا کیا۔ "تَمَغِصِي الشَّيْءُ وَتَمَغِصْتُ مِنْهُ" اس نے مجھے تکلیف دی۔

السَّمِغِصُ: موص۔ آنتوں میں مزور اور ایشٹھن۔

السَّمِغِصُ: عمدہ اونٹ جِ أَمِغِصِصِ واحد مَفِصَّةٌ۔

مَغِطٌ (ف) مَغِطًا وَمَغِطٌ الشَّيْءُ: لہا

ہونے کے لئے کھینچنا۔

تَمَغِطٌ وَاشْغَطُ الشَّيْءُ: کھینچنا اور طویل ہونا۔

تَمَغِطُ البَجِيزُ: دوڑنے میں اگلے پیروں کو پھیلانا..... الفروس: بہت زیادہ دوڑنا۔

أَمِغَطٌ: کھینچنا اور طویل ہونا..... السَّيْفُ:

تکوار سوتتا۔

السَّمِغِطُ: انتہائی لہا۔

مَغَلٌ (ف) مَغَلًا وَمَغَالَةٌ بِالرَّجُلِ: چغل خوری کرنا۔

مَغَلَتْ (س) مَغَالَعَيْنَهُ: خراب ہونا۔

الْحَامِلُ بِوَلَدِهَا: زمانہ حمل میں دودھ پلانا۔

مَغَلَتْ (ف) وَمَغَلَتْ (س) مَغَالًا الذَّابَّةُ:

چوپایہ کے پیٹ میں مٹی ملی ہوئی گھاس وغیرہ کھانے سے درد ہونا۔ صفت مَغَلَةٌ

وَمَغُولَةٌ: اور اسم المَغَلَّةُ: أَمِغَلُ القَوْمِ: مٹی ملی ہوئی گھاس وغیرہ

کھانے سے پیٹ میں درد ہونے والے

جانور کا مالک ہونا..... الْحَامِلُ وَكَذَٰهَا:

زمانہ حمل کا دودھ پلانا..... بِسَبِّ عِنْدَ السُّلْطَانِ: چغل خوری کرنا۔

السَّمِغَلُ وَالْمَغَلُ: زمانہ حمل میں عورت کا دودھ المَغَلُ: آکھ کا کچڑ۔ جِ أَمِغَالِ۔

لِلمَغَلِ: ایک قوم کا نام۔ جِ مُغُولِ۔

السَّمِغَلَةُ: مغل کا اسم مرؤۃ۔ فساد۔ سال میں دو مرتبہ بچہ جننے والی بیڑیا بکری۔ جِ مِغَالِ۔

السَّمِغَالَةُ: موص خیات۔ فریب۔

مَغْمِغُ اللَّحْمِ: گوشت کو نرم نرم چبانا۔

الكَلَامُ: مہم کہنا..... الشَّيْءُ: گڈ گڈ کرنا.....

فِي عَمَلِهِ: ناقص وردی طریقے سے کرنا.....

الْأَمْرُ: غلط ملاط ہونا..... الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ: کتے کا برتن میں منڈالنا۔

السَّمِغَطِيسُ وَالْمِغْنَطِيسُ: چمک پتھر۔

مَغَا يَسْمَغُو مَغْوًا السِّنْوَرُ: بیلی کا میاؤں میاؤں کرنا۔

المغاء والمغوء: بلی کی آواز۔

مَغِي مَغِيًا: غیر مفہوم گفتگو کرنا۔

تَمَغِي الأَذِيمُ: چڑے کا ڈھیلا پڑنا۔

السَّمِغِي موص..... فِي الأَذِيمِ: چڑے کا ڈھیلا پن۔

فِي الإنسانِ: مذات یا واقعی طور پر وہ کچھ کہنا جو اس کے اندر نہ ہو۔

مَفْجٌ (ف) مَفْجًا الرَّجُلُ: بے وقوف ہونا۔

مَفَّجٌ (ن) مَفْجًا الشَّيْءُ: چیز کو کھولنا..... اللُّدَّةُ عَيْنُهُ: اکھیڑنا۔

مَقَّقُ الطَّائِرِ فَرَحَهُ: پرندہ کا بچہ کو چوگا دینا۔

عَلِي عِيَالِهِ: فقیری یا بخل سے نان نفقہ میں تنگ کرنا۔

تَمَقَّقُ الشَّرَابِ: تھوڑا تھوڑا پینا..... خا فِي العَظْمِ: ہڈی سے سارا گوڈا نکال لینا.....

وَأَمْتَقُّ الفَصِيلَ مَا فِي الصَّرْعِ: تھن سے سارا دودھ لی لینا۔

السَّمَقُّ: پتلے پن کے ساتھ بہت لہائی۔ ہردو چیزوں کے درمیان ڈوری۔

السَّمَقَةُ: دودھ پینے والے مہنے۔ جاہل لوگ۔ تھوڑی تھوڑی شراب پینے والے۔

الأمقُّ: پتلے پن کے ساتھ بہت لہا۔ مَوْنِثٌ مَقَّاءٌ جِ مَقِي. بِلْدِ أَمَقٍ وَسَمِغِ شَهْرٍ. فَمَجَّدَ مَقَّاءُ: گوشت سے خالی ران۔ جِ مَقِي.

مَقَّتْ (ن) مَقَّاءُ وَمَقَّتْ الرَّجُلُ: بہت بغض رکھنا۔

مَقَّتْ (ك) مَقَّاتَةَ فَلَانٍ إِلَيَّ: ناپسند ہونا۔

مَقَّقَهُ: بہت بغض رکھنا۔ مَقَّقَهُ إِلَيَّ فَبِحِ فِعْلِهِ: مبعوض کر دینا۔

تَمَقَّقْتُ إِلَيَّ: ناپسند ہونا۔

تَمَقَّقُوا: بعض کا بعض کے ساتھ بغض رکھنا۔

السَّمَقْتُ: موص زواج السَّمَقْتُ: باپ کی بیوہ سے شادی کرنا۔

السَّمَقِيسِيُّ: باپ کی بیوہ سے شادی کرنے والا۔

السَّمَقِيسِيُّ وَالسَّمَقِيسِيُّ: ناپسند۔

مَقَرٌ (ن) السَّمَكَةُ مَقَرًا عُنُقُهُ: الجحی مار کر گردن توڑ دینا..... المَالِحَةُ: نمک لگی ہوئی مچھلی کو سرکہ میں بھگوانا۔

مَقِيرٌ (س) مَقِيرًا الشَّيْءُ: کڑوا یا کھٹا ہونا۔

صفت مَقِيرٌ۔

أَمَقَرُ السَّمَكَةَ المَالِحَةَ: نمک لگی ہوئی مچھلی کو سرکہ میں بھگوانا..... الشَّيْءُ: کڑوا ہونا.....

اللبُّنُ: دودھ کا بے مزہ ہونا۔

أَمَقَّرَ الرَّكِيَّةَ: پانی ختم ہونے کے بعد کنوئیں کو پھر کھودنا۔

أَمَقَّرَ أَمَقَّرًا الرَّجُلُ: ابھری ہوئی رگ والا ہونا۔

السَّمَقَرُ وَالْمَقِيرُ: ایوا یا اس کے مشابہ کڑوی چیز۔

السَّمَقَرُ: سرکہ میں بھگوئی ہوئی نمکین مچھلی۔

السَّمَقَرُ: کم پانی والا کسواں۔

مَقَّسٌ (ن) مَقَّسًا القُرْبَةَ: متک بھرنے۔

الشَّيْءُ فِي المَاءِ: پانی میں ڈبونا..... المَاءُ:

تَمَاخُورًا: بعض کا بعض سے حیلہ کرتا۔
 اِمْتَكِرُوْا اِمْتَكِرُوْا: گھرو سے رنگا ہوا ہونا۔
 السُّكْرُ: مہس۔ دھوکا۔ فریب۔ دھوکہ فریب
 کی سزا۔ گھرو۔
 السُّكْرَةُ: بکر کا اسم مرۃ۔ لڑائی میں حیلہ و
 تدبیر۔ بے پھولوں کا ایک قسم کا پودہ۔ کھیت
 کی سیرابی۔ خوبصورت موٹی پنڈلی۔ ج
 سُّكْرٌ و سُّكْرُوْرٌ۔
 السَّاكِرُ: فریب کرنے والا۔ ج سُّكْرَةٌ
 و ما كُرُوْرٌ۔
 السُّكَّارُ و السُّكُوْرُ: بہت دھوکہ فریب کرنے
 والا۔
 مَكْسٌ (ض) مَكْسًا: ٹیکس جمع کرنا..... فی
 البَيْعِ: قیمت گھٹانا..... ہ: ظلم کرنا۔
 المَكْرُوْرُ و مَكْرُوْبٌ: (یونانی لفظ) اس کی عربی
 اَلْمُجْبِرُ: دور بین۔
 مَكْسُ الرُّجُلِ: خرید و فروخت وغیرہ میں
 نقصان پہنچنا۔
 مَا كَسَهُ مَكَاسًا و مَمَّا كَسَهُ: قیمت کم کرنا۔
 مخالفت کرنا۔
 تَمَاكَسَ الرُّجُلَانِ فِي البَيْعِ: خرید و
 فروخت میں باہم جھگڑنا۔
 السُّكْسُ: مہس۔ محصول۔ ٹیکس۔ چٹکی۔ ج
 سُّكُوْسٌ۔
 السَّمَاكِسُ و السَّمَاكِسُ: ٹیکس وصول کرنے
 والا۔ صاحب کس بھی کہا جاتا ہے۔
 مَكْمَكُ الرُّجُلِ: چلنے میں لڑھکانا.....
 السَّمْعُ: سارا گودا چوس لینا۔
 مَكْنٌ (ك) مَكْنَانَةٌ عِنْدَ الْاَمِيْرِ: صاحب
 مرتبہ ہونا۔
 مَكْنٌ (س) مَكْنَا الْجِرَادَةَ و نَحْوَهَا:
 تڈی کا انداز دینا یا اٹھنے والی ہونا۔ صفت
 مَكُوْنٌ۔ ج مَكَانٌ۔
 مَكْنَةٌ و اَمْكَنَةٌ مِنَ الشَّيْءِ: قدرت دینا۔ قادر
 بنانا۔
 اَمْكَنُ الْاَمْرُ فَلَانًا و لِفَلَانٍ: آسان ہونا۔
 ممکن ہونا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ لَا يُمْكِنُهُ"

السُّهُوْضُ" فلاں اٹھنے پر قادر نہیں۔
 و اَمْكِنِي الْاَمْرُ: یعنی معاملہ میرے قبضہ میں
 آ گیا۔ اَمْكِنَتِ الْجِرَادَةُ: تڈی کا اٹھا
 دینا۔
 تَمَكَّنَ عِنْدَ الْاَمِيْرِ: بلند و صاحب مرتبہ
 ہونا۔ السَّمْكَانُ و بَدَ: مضبوط اور جھبے ہوئے
 قدم والا ہونا۔ (..... و اسْتَمْكَنَ) صِن
 الْاَمْرُ: قادر ہونا یا فتح مند ہونا۔
 المَكْنُ و المَمْكِنُ: تڈی وغیرہ کے اٹھنے۔
 و اَحَدُ مَكْنَةٍ و مَكْنَةٍ ج مَكْنَاتٌ و مَكِنَاتٌ۔
 المَكْنَةُ: قوت۔ طاقت۔
 المَكْنَةُ: قدرت۔ پرندوں کا گھونسلہ۔ ج
 مَكِنَاتٌ۔
 المَمْكَانُ: موضع۔ جگہ (یہ ظرف ہے کون
 سے) ج مَمْكِنَةٌ و اَمْكِنٌ۔ و ج اَمَّا يَكُنْ اور کہا
 جاتا ہے "هُوَ مِنَ الْعِلْمِ بِمَكَانٍ" اس کے
 لئے علم کا ایک خاص مرتبہ حاصل ہے "و هَذَا
 مَمْكَانٌ هَذَا" یا اس کے بدلے میں ہے۔
 اَلْمَمْكَانَةُ: مہس۔ مرتبہ۔ رفعت شان۔
 سنجیدگی۔ کہا جاتا ہے "اَمْسَسَ عَلِيٌّ
 مَمْكَانِيكَ" یعنی سنجیدگی اور وقار کے ساتھ
 چلو۔ ج مَمْكَانَاتٌ۔
 السَّمْكِيْنُ: صاحب مرتبہ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ
 سَمْكِيْنٌ عِنْدَ الْاَمِيْرِ" اس کو امیر کے نزدیک
 مرتبہ حاصل ہے "وَهُوَ اَمْكِنٌ مِنْ غَيْرِهِ" یہ
 نسبت غیر کے زیادہ صاحب مرتبہ ہے۔ ج
 مَكْنَاءٌ۔
 السَّمْكِيْنَةُ: آہستگی۔ کہا جاتا ہے "اَمْسَسَ عَلِيٌّ
 سَمْكِيْنِيكَ" یعنی سنجیدگی اور وقار کے ساتھ
 چلو۔
 السَّمْتَمِكُنُ فِي عِلْمِ الشَّيْءِ: اصطلاح نحو میں
 وہ اسم جو بنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ
 رکھتا ہو۔
 و السَّمْتَمِكُنُ الْاَمْمَكُنُ: اسم منصرف جس کے
 آخر میں تینوں حرکات مع تنوین کے ظاہر
 ہوں۔
 و السَّمْتَمِكُنُ غَيْرُ الْمَمْمَكُنِ: اسم غیر منصرف

جس کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہ آئے۔
 غَيْرُ السَّمْتَمِكُنِ: وہ اسم جو بنی الاصل کے
 ساتھ مشابہت رکھتا ہو جیسے كَيْفٌ و اَيْنٌ۔
 مَمْكَا يُمْكِنُوْا مَمْكَاءً و مَمْكُوْرًا: منہ سے سٹی
 بجانا۔
 مَمْكِيْتُ مَمْكِيٌّ مَمْكَا يَمْكِنُهُ: ہاتھ میں زیادہ
 کام کرنے کی وجہ سے جھالے ہونا۔
 مَمْكِيٌّ مَمْكِيٌّ الْفَرَسُ: گھوڑے کا پسینہ سے
 شرابور ہونا۔
 الْمَمْكِيُّ و الْمَمْكُوْرُ: خرگوش وغیرہ کا بھت۔ ج
 اَمْمَكَاءٌ۔
 السَّمْمَكَاءُ: سفید رنگ کا خوش آواز پرندہ۔ ج
 مَمْكَا حَمِيٌّ۔
 السَّمْمَكُوْرَةُ: دیر۔
 مَمْلٌ (ن) مَمْلًا السَّمْمَكُوْرَةُ: کپڑے پر نظر کرنا۔
 کچا کرنا..... السَّمْمَكُوْرَةُ فِي النُّجْمِ: انگاروں
 میں رکھنا۔ صفت فاعل مَمْلٌ صفت مفعولی
 مَمْلُوْلٌ و مَمْلِيْلٌ۔
 السَّمْمَكُوْرَةُ بِالسَّمْمَكُوْرَةِ: تیر کو آگ سے سیدھا
 کرنا۔
 السَّمْمَكُوْرَةُ او السَّمْمَكُوْرَةُ: گوشت یا روٹی کو
 بھجھل میں ڈالنا۔ السَّمْمَكُوْرَةُ: تیز و زنا
 عَلَيْهِ السَّمْمَكُوْرَةُ: ستر طویل ہونا۔
 مَمْلٌ (س ن) مَمْلًا لِمَالٍ لَاتِقٌ ہونا۔ مرض یا
 غم کی وجہ سے تڑپنا..... السَّمْمَكُوْرَةُ: الٹ پلٹ
 کرنا۔ السَّمْمَكُوْرَةُ: بخار زدہ کا تھلانا۔
 مَمْلٌ (س) مَمْلًا و مَمْلًا و مَمْلًا و مَمْلًا
 السَّمْمَكُوْرَةُ و مَمْلٌ السَّمْمَكُوْرَةُ: جھگول ہونا۔ زچ
 ہونا۔
 مَمْلٌ مَمْلًا السَّمْمَكُوْرَةُ: الٹ پلٹ کرنا۔
 مَمْلٌ عَلَيْهِ السَّمْمَكُوْرَةُ: طویل ہونا۔ مَمْلٌ الْاَمْرُ
 و مَمْلٌ عَلَيْهِ الْاَمْرُ: دشوار ہونا۔ مَمْلٌ مَمْلٌ
 ذَالنا۔ مَمْلٌ السَّمْمَكُوْرَةُ: بھجھل میں ڈالنا۔
 مَمْلٌ مَمْلًا و مَمْلًا و مَمْلًا مَمْلًا الْكِتَابِ
 عَلَيْهِ الْكِتَابِ: الما کرنا۔
 مَمْلٌ مَمْلٌ: مرض یا غم کی وجہ سے تڑپنا..... فی

الْمَشْيُ: تیز دوڑنا..... مِلَّةٌ كَذَا: مذہب
اختیار کرنا..... السُّخْرَةُ: روٹی کو بھوہل میں
پکانا۔

إِسْمَلٌ: کھینچا جانا۔ نکل آنا۔

إِسْتَمَلَ الشَّيْءُ: زچ ہونا۔

الْمَلُّ: مصل۔ زجحل مَلٌّ: آکتایا ہوا مرد۔

السَّلَّةُ: اسم مرۃ۔ چنگاری بھوہل بخار کا
پینہ۔ ننگ دی۔ وخبزۃ المَلَّة: بھوہل کی
پکی ہوئی روٹی اور کہا جاتا ہے "زَجْحَلٌ مَلَّةٌ"
بہت جلدی ملول ہونے والا۔

السَّلَّةُ: مذہب۔ شریعت۔ خون بہا۔ ج
مِلل۔

السَّلَّةُ: بچی سلائی۔ ج مِلل۔

السُّلِّي: بھوہل میں پکی ہوئی روٹی۔

السُّلُّ والسَّلَالُ: ننگ دل۔

السُّلَالُ: مرض یا غم کی وجہ سے اضطراب۔

پینچہ کا درد۔ کمان کی پینچہ۔ ہڈی کے اندر کی

گرمی۔ بخار کا پینہ۔ تلوار کے قبضہ کی

کلڑی۔

السُّنُولُ والسُّنُولَةُ والسَّلَالَةُ والسَّلَالَةُ:

ننگ دل۔ مذکر و مؤنث تا مبالغہ کے لئے

ہے۔

السُّبِيلُ والسُّبُولُ: بھوہل میں بھنا ہوا۔

السُّبِيُّ السُّبُولُ: باعث ملال۔ السُّبِيلُ:

کرپٹنی۔ زَجْحَلٌ قَبِيلٌ: آفتاب سے جھلسا ہوا

مرد۔

السُّنُولُ: واحد مَنُولَةٌ: بلوط درخت کی ایک

قسم جو کدر گئے کے کام آتا ہے۔

السُّبِيلُ والسُّبُولُ مِنَ الطَّرْقِ: بہت چلتا ہوا

راستہ۔

..... السُّبِيلَةُ: اندرونی بخار۔ پیاس کی

تیزی۔

مَلَاةٌ (ف) مَلَا وَمَلَاةٌ وَمَلَاةٌ: بھرنا۔

..... الإِنَاءُ مَاءٌ وَبِالْمَاءِ وَمِنَ الْمَاءِ: برتن کو

لبالہ کرنا۔ صفت مفعول مَمْلُوءَةٌ اور کہا جاتا

ہے مَلَاةٌ عَلَى الْأَمْرِ: اس کی اس نے مدد کی

"وَنظَرْتُ إِلَيْهِ فَمَلَأَتْ مِنْهُ عَيْنِي" میں

نے اس کو دیکھا مجھے اس کا دیکھنا بھلا معلوم
ہوا وَمَلَا عَلَيْهِ الْأَرْضُ: اس نے اس پر
زمین ننگ کر دی۔

مَلُّوْا (ك) مَلَاةٌ وَمَلَاةٌ: تو انگر ہونا۔

مَلُّوْا (ك) وَمَلُّوْا مَلَاةً: زکام والا ہونا۔

مَلُّوْا (س) مَلَا وَمَلَاةً: پر ہونا۔ صفت

مَلَان۔

مَلَاةٌ تَمَلُّنَا: خوب بھرنا (تشدید مبالغہ کے

لئے ہے) مَلَاةٌ فِي قَوْمِهِ: کمان کو خوب زور

سے کھینچنا۔

أَمَلَاةٌ: باعث زکام ہونا۔ صفت مَلَان۔ أَمَلَاةٌ

فِي الْقَوْمِ: خوب زور سے کھینچنا۔

تَمَلَا: پُر ہونا۔ تَمَلَاتِ الْهَذَاةُ: عورت کا

چادر اوڑھنا۔

مَمَلَاةٌ مَمَلَاةٌ وَمَلَاةٌ عَلَى الْأَمْرِ: موافقت

کرنا۔ مدد کرنا۔

تَمَلَاةٌ الْقَوْمِ عَلَى الْأَمْرِ: اکٹھا ہو کر باہم مدد

کرنا۔

إِسْتَمَلَا فِي ذَنْبِهِ: قابل اعتماد غنیمت کو قرض

دینا۔

السُّبُلُ: برتن بھرنے کی مقدار۔ ج أَمَلَاةٌ اور

کہا جاتا ہے "إِنَّهُ يَسَامُ مِلَّ حَفِيْبِهِ" وہ بے غم

سوتا ہے و"فَلَانٌ مِلَّ كَسَالِهِ" فلاں مونا

ہے۔

السُّلَا: قوم کی جماعت۔ اشراف قوم جن

سے دلوں میں ہیبت طاری ہو۔ السُّلَا

الاعْلَى: ملائکہ مقربین۔ السُّلَا: مشورہ۔ کہا

جاتا ہے "فَمَا تَكُنْ هَذَا الْأَمْرَ عَنْ مَلَاةٍ مِنَّا"

یہ کام ہمارے مشورہ سے نہیں تھا۔ کمان۔

لاج۔ ج أَمَلَاةٌ اور کہا جاتا ہے "فَمَا أَحْسَنُ

مَلَاةً بِنِسْبِي فُلَانٌ" یعنی ان کے عادات و

اخلاق کس قدر اچھے ہیں۔

السُّلَاةُ: فال۔ کہا جاتا ہے "زَجْحَلٌ مَالِي" مرد

جلیل جس کے سامنے آنکھیں نہ ٹھہر سکیں۔

وَسَابَّ مَالِي الْعَيْنِ: آنکھوں کو بھر دینے

والا جوان۔

السُّلَاةُ وَالْمَلَاةُ وَالْمَلَاةُ: زکام۔ المَلَاةُ

ةٌ: بند۔ وبری چادر۔ ج مَلَاةٌ۔

الجَلَاةُ: مصل۔ بھرنے کی ہیبت۔ بدبختی۔

السُّلَانُ: بھرا ہوا۔ زکام والا۔ مَوْنَتٌ مَلَاةٌ

وَمَلَاةٌ ج مَلَاةٌ۔

السُّلِيُّ وَالْمَلِيُّ: تو انگر۔ ج مَلَاةٌ وَأَمَلْنَا

وَمَلَاءٌ کہا جاتا ہے "هُوَ أَمَلَا الْقَوْمِ" یعنی

وہ قوم میں سے زیادہ غنی اور قادر ہے

"وَفُلَانٌ أَمَلَا لِعَيْنِي مِنْ فُلَانٍ" یعنی فلاں

فلاں کے لحاظ سے صن میں زیادہ کامل

ہے۔

مَمَلَّةٌ (ض) مَمَلَاةٌ: حرکت دینا۔ زور سے

بلانا۔

مَمَلَّةٌ (ن) مَمَلْنَا: بغیر نیت وفا کے محض زبانی

وعدہ سے دل خوش کر دینا۔ آہستہ مارنا۔

مَمَلَّةٌ بِالشَّرِّ: آدودہ کرنا۔ مَمَلْتُ الظَّلَامَ: گھٹا

ٹوپ اندھیرا ہونا۔

مَمَلَّةٌ مَمَلْنَا وَمَمَلْنَاةٌ: کھیل کو دکرنا۔ مدابنت

برتنا۔

مَمَلْتُ اللَّيْلُ وَمَمَلَّةٌ: رات کی ابتدائی

تاریکی۔

السُّمَلَّةُ: مغرب کے وقت کی ابتدائی

تاریکی۔

السُّمَلْتُ: وہ شخص جو جماع کرنے سے سیر نہ

ہو۔

مَمَلَجٌ (ن) وَمَمَلَجٌ (س) مَمَلَجَا الصَّبِيُّ

أُمَّةٌ: بچے کا ہونٹوں میں لے کر دودھ پینا۔

أَمَلَجَةٌ: دودھ پلانا۔

أَمَلَجٌ: مافی القلبی: جوسنا۔

السُّمَلَجُ: گولگل کے پھل کی کھنٹی۔ ج أَمَلَجٌ.

السُّمَلَجُ: دودھ پینے والے سینے۔ چھوٹے

چھوٹے بکری کے بچے۔

السُّمَلِجُ: دودھ پیتا بچہ۔ مرد بزرگ۔

الْأَمَلِجُ: چھیل میدان۔ آملہ۔

الْأَمَلُوجُ: ایک جنگلی درخت جس کے پتے

سرد اور جھاڑ کی طرح ہوتے ہیں۔ نازک

شبی اور بقول بعض جز جو نرم ہونے کے لئے

مٹی میں دیادی جائے۔ ج امالیج۔

الصالح: کرنی۔ گل کاری کرنے کا آلہ۔
فوالج (دخیل)
ملح (فرض) مَلْحًا الطَّعامُ: کھانے میں
نمک ڈالنا..... الرَّجُلُ: نصیحت کرنا.....
الطَّائِرُ: پرندہ کا بہت پھڑ پھڑانا.....
المضابیحۃ: ٹوٹی کھانا اور کہا جاتا ہے "مَلْحٌ
اللہ فیہ" یعنی اللہ اس کی زندگی میں برکت
دے۔

مَلْح (ف) و مَلْح (ک) مَلْوُحَةٌ
وملاحة و مَلْوُحًا المَاءُ: پانی کا کھاری
ہونا۔ صفت مَلْبِیح اور نادرتور پر مالح بھی
مستعمل ہے۔

مَلْح (ک) مَلَاحَةٌ و مَلْوُحَةٌ: خوبصورت
ہونا۔ حسن طبع والا ہونا۔ صفت مَلْبِیح و مَلَاح
و مَلَّاحٌ۔

مَلْح (س) مَلْحًا: نیلگوں رنگ کا ہونا۔
ملح الشی: نمکین کرنا..... الطَّعامُ: کھانے
میں بہت نمک ڈالنا..... السَّمْكُ
و نَحْوُهُ: پھچلی وغیرہ میں نمک لگانا.....
السَّدَابَةُ: چوپائے کے جڑے میں نمک ملانا۔
المضابیحۃ: جانور کو ٹوٹی کھانا۔ المُنْتَكَمُ: عمدہ
بات کہنا۔

أصلح المَاءُ: پانی کا خوشگوار ہونے کے بعد
کھاری ہونا..... الطَّعامُ: کھانے میں بہت
نمک ڈالنا..... الإِبِلُ: کھاری پانی پر جانا
..... الرَّجُلُ: کھاری پانی پر بیچنا..... الرَّاعِي
الإِبِلُ: کھاری پانی پلانا..... الشَّيْءُ:
نیلگوں رنگ کا ہونا۔

الْمُنْتَكَمُ: عمدہ بات کہنا اور تعجب کے موقع پر
کہا جاتا ہے "مَا أَصْلَحُهُ وَمَا أَمْلَحُهُ" یعنی
کس قدر خوبصورت ہے۔

مَالِحَةٌ مَلَاحًا و مَمْلَاحَةٌ: ساتھ کھانا۔ کہا
جاتا ہے "هُوَ يَحْفَظُ خُرْمَةَ الْمَمْلَاحَةِ" وہ
ساتھ کھانے کا پاس کرتا ہے۔ مَالِحٌ فَلَانًا:
ایک بچے کا دوسرے بچے کے ساتھ دو دو
بیٹا۔

تَمْلَحُ البَعِيرُ: اونٹ کا موٹا ہونا..... الرَّجُلُ:

نمک توشہ میں لینا۔ نمک کی تجارت کرنا۔ کہا
جاتا ہے "فَلَانٌ يَنْظُرُ و يَتَمَلَّحُ" فلاں
خوش طبع اور دلچسپ باتیں کہتا ہے۔
أَمْلَحُ الكَيْشُ: مینڈھے کا سفید سیاہ رنگ کا
ہونا۔

أَمْلَاحُ السَّنْحُلُ: سرخ اور زرد کی بھجور کا
ہونا۔ اِسْتَمْلَحُ الشَّيْءُ: بچھنا۔
الصلح: عمدہ عمدہ باتیں۔

الصلح: نمک (مذکر و مؤنث) تانیث غالب
ہے (صغیر مَلْبِیحَة ن ج مَلَاح. الصلح:
چربی موٹا پا۔ خوبصورتی۔ رضاعت۔ علم
علیما۔ مَاءُ مَلْحٌ: کھاری پانی اور کبھی مَاءُ
صَالِحٌ بھی کہا جاتا ہے۔ ن ج مَلْبِیح و مَلْبِیحَة
و مَلَاح و اِمْلَاح کہا جاتا ہے "فَلَانٌ مَلْبِیحُهُ
عَلَى رُكْبَتَيْهِ" وہ بے وفا ہے یا وہ بہت جھگڑا
کرنے والا ہے۔

الصلح و المَلْبِیحَة: حرمت۔ معاہدہ۔ کہا جاتا
ہے بَيْنَهُمَا مَلْبِیحٌ اور مَلْبِیحَةٌ ان دونوں کے
درمیان معاہدہ ہے۔ و المَلْبِیحَة: کھاری۔ کہا
جاتا ہے "بِنُو مَلْبِیحَةٍ" کھاری کتوں۔

الصلح: سپیدی سیاہی ملی ہوئی۔ سخت نیلگوئی
۔ گھوڑے کی ایزی کی سوچن۔
المَلْبِیحَة: اسم مرؤة۔ موج دریا۔

المَلْبِیحَة: سخت نیلگوئی۔ بیت۔ خوف۔
برکت۔

المَلْبِیحَة: مزیداریات۔ ن ج مَلْح.
المَلْبِیحَة: کلہ مایہ۔

السِّبْلَاحُ: کشتی چلانے والی ہوا۔ نیزہ کا
بھالا۔ پوشش۔ توبرہ۔

السِّبْلَاحُ: خوبصورت۔ ن ج مَلَاحُونَ.
المصلاحة: خوبصورت ہونا۔

المصلاحة: جہاز رانی۔
السَّمْلَاحَة و المصلاحة: نمک پیدا ہونے کی
جگہ۔ المصلاحة: نمک بکینے کی جگہ۔

الأصلوحة من الكلام: عمدہ مستحسن کلام ن ج
اصالیح.

السَّالِحُ: نمک والا۔ نمک بیچنے والا۔ جہاز

راں۔

السَّمْلَاحُ: ایک ترش نباتات۔ واحد مَلَاحَةٌ
رَجُلٌ مَلَاحٌ: خوبصورت خوش طبع مرد۔ ن ج
مَلَاحُونَ.

المصلاحة: جہازوں کا پیشہ۔

المصلوحة: مص۔ نمکین۔

المصليح: خوبصورت۔ مؤنث مَلْبِیحَة ن ج
مَلَاح و اِمْلَاح..... مِنَ المَاءِ: کھاری
پانی۔ مَسْكٌ مَلْبِیحٌ: نمک لگی ہوئی پھچلی۔

الأصلح: اسم تفضیل۔ سفید و سیاہ رنگ والا۔
ن ج مَلْبِیح. الأصلح: شبنم جورات کو بزمیوں پر
پڑتی ہے۔

المصْلَحَاءُ: تانیث أَمْلَحُ: سفید و سیاہ رنگ
والی۔ درخت جس کے پتے جھڑ گئے ہوں۔
بزرگ الفکر ن ج مَلَاحَات.

المصْلَاحِي و المصْلَاحِي: سفید لہا انگور۔ ایک
قسم کا انجیر۔

المصْلَاحَة: نمک دان۔ ن ج مَصَالِح.

المصْمَلِیحُ: نمک والا یا سودا گر نمک۔

مَلْح (ف) مَلْحًا الشَّيْءُ: ہاتھ یادانت سے
کھینچنا..... الطَّعامُ: کھانے کا خراب و بد مزہ
ہونا۔ المفسرُ: گھوڑے کا کلیس کرنا.....

الرَّجُلُ: تیز چلنا۔ بھاگنا..... فِي الباطِلِ:
لقو باطل میں بہت مشغول ہونا.....
الجارية: جماع کرنا۔

مَلْح (ک) مَلَاحَةٌ الطَّعامُ: کھانے کا
خراب و بد مزہ ہونا۔

مَالِحَةٌ مَلَاحًا و مَمْلَاحَةٌ: باہم کھیل کود کرنا۔
چاپلوسی کرنا۔

تَمْلَحُ الشَّيْءُ: خراب و فاسد ہونا..... الشَّيْءُ:
کھینچنا۔

أَمْلَحُ الشَّيْءُ: کھینچنا۔ کھینچنا..... يَدُهُ مِنْ
القَابِضِ عَلَيْهِ: کھینچ لینا..... السَّيْفُ: تلوار کو
جلدی سے سونٹنا۔ کہا جاتا ہے "مَسْرُوفُ مَسْحٍ
مَسْرُوحٌ" اس کا تڑا ایک تڑے
ہوئے نیزہ پر ہوا اور اس نے اسے کھینچ لیا۔

السِّبْلَاحُ: بہت چاپلوسی کرنے والا۔ غنبد

مَلَاخ: بہت بھاگنے والا غلام۔ السُّلُوخِيَّةُ: ایک قسم کی بزمی جو پکا کر کھائی جاتی ہے۔ المَلِيخُ: بگڑا ہوا کھانا۔ بے مزہ۔ کمزور۔ مَمْتَلَخُ الْعُقُلِ: محروم عقل۔ مَلَذُ (ن) مَلَذُ الشُّيِّ: بھینچنا۔ مِلْدُ (س) مِلْدَا الْعُضُنُ: بھنی کا ہانا اور نرم ہونا۔ مَلْدُ الْأَدِيمِ: چیز سے کوزم کرنا۔۔۔۔۔ الرئی الْعُضُنُ: بھنی کوزم و نازک کرنا۔ المَلْدُ: جوانی۔ نزاکت۔ رج أملاذ۔ المَلْدَانُ: بھنی کی نزاکت۔ السُّلْدُ وَالْأَمْلُدُ وَالْأَمْلُدُ وَالْأَمْلُودُ وَالْإِنْمِلِيدُ وَالْأَمْلُدَانُ وَالْأَمْلُدَانِي: نرم و نازک بھنی یا آدمی۔ کہا جاتا ہے "فَسَابَّ أَمْلُودٌ وَشَبَّانُ أَمَالِيدُ" المَلْدُ: بھوت۔ المَلْدَاءُ: تانبہ مَلْدُ ج مَلْدُ: کہا جاتا ہے إِسْرَاقَ مَلْدَاءٍ وَأَمْلُودٍ وَأَمْلُودَةٍ وَأَمْلُدَانِيَّةٍ: یعنی نازک بدن عورت۔ مَلَذُ (ن) مَلَذَا الرَّجُلُ: بھوت یوں۔۔۔۔۔ فِلَاسًا: نیز دھارنا۔۔۔۔۔ الْقُرْسُ: گھوڑے کا بازوؤں کو پھیلا کر تیز دوڑنا۔۔۔۔۔ مَلْدًا وَمِلَافَةً الرَّجُلُ: بخش باتوں ہی سے خوش کرنا اور کہنے کے مطابق عمل نہ کرنا۔ مِلْدُ (س) مَلَذَا الظَّلَامُ: گھناؤپ اندھیرا ہونا۔۔۔۔۔ الرَّجُلُ: خالص دوستی نہ کرنا اور ضمیر کے خلاف ظاہر کرنا۔ الاملد والملدان والملداني والملاذاني والملاذ والملاذ والملاذ: خالص دوستی نہ کرنے والا۔ مَلَزُ (ن) مَلَزَا: پیچھے رہنا۔۔۔۔۔ بِالشُّيِّ: لے جانا۔ مَلَزُهُ مِنْهُ: چھڑانا۔ مَلَزُ الشُّيِّ عَنِّي: جاتا رہتا۔ أَمْلَزُهُ مَمْلَزُهُ وَأَمْلَزُهُ: نکال لینا۔ اُچک لینا۔ لے جانا۔ وَمَمْلَزُهُ مِنْهُ: چھکارا پانا۔ أَمْلَزُ وَأَمْلَزُ مِنْهُ: بچ کر نکل جانا وَأَمْلَزُ عَنْهُ:	پیچھے رہنا۔ المَلَزُ مِنَ الرَّجَالِ: مضبوط پٹھوں والا۔ المَلَاذُ: بہت اچکنے والا۔ بھینچنا۔ مَلَسَ (ن) مَلَسَا الشُّيِّ: جڑ سے اُکھیرنا۔ الإهبل: زور سے ہانکنا۔۔۔۔۔ الظلام: گھناؤپ اندھیرا ہونا۔۔۔۔۔ الرَّجُلُ بِلِسَانِهِ: مدابنت کرنا۔ چالپوسی کرنا۔ فَلَسَ (س) وَمَلَسَ (ك) مَلُوَسَةٌ وَمَلَانَةٌ: نرم اور چمکدار ہونا۔ صفت أَمَلَسَ۔ مَلَسَ الشُّيِّ: نرم و چمکدار کرنا۔۔۔۔۔ الْأَرْضُ: زمین کو ہموار کرنا۔۔۔۔۔ مِنْ الْأَمْرِ: چھڑانا۔ أَمَلَسَ الظَّلَامُ: گھناؤپ اندھیرا ہونا۔ أَمَلَسَتِ الشَّاةُ: گرے ہوئے اُون والی ہونا۔ تَمَلَسَ: چمکنا ہونا۔۔۔۔۔ مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ: خارج ہونا۔۔۔۔۔ مِنَ الشَّرَابِ: نشہ سے ہوش میں آنا (۔۔۔۔۔) وَالنَّمَلَسَ وَالنَّمَلَسَ: مِنَ الْأَمْرِ: بچ لگانا رہائی پانا۔ أَمَلَسَ الشُّيِّ: اچک لینا۔ أَمَلَسَ بَصْرَهُ: اس کی نگاہ جاتی رہی۔ أَمَلَسَ: چمکنا ہونا۔۔۔۔۔ مِنَ الْأَمْرِ: بچ لگانا رہائی پانا۔ المَلَسَ: ہموار جگہ۔ رج مُلُوسٌ وَأَمَلَسَ وَرَجَّ أَمَالِيَسَ: مَلَسَ الظَّلَامُ: سخت تاریکی اور یہ مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت ہے۔ المَلَسِي: بہت تیز رفتار اونٹنی اور کہا جاتا ہے بِأَيْفَعِ الْمَلَسِي اس نے اس سے بلا شرط بچ کی۔ الأملس: نرم چمکنا۔ مَوْنَتُ الْمَلَسَاءِ. الْمَلَسَاءُ: آسانی سے اُترنے والی شراب۔ سِنْفَةُ الْمَلَسَاءِ: خشک سال۔ رج أَمَالِسٌ وَأَمَالِيَسُ. الْاَيْفُ الْمَلَسَاءِ: الف لین۔ جیسے کتاب کا الف۔ المَلِيَسُ: نرم اور چمکنا۔ المَلِيَسَاءُ: دو پہر۔ مغرب اور عشاء کا	درمیان۔ الْأَمَالِيَسُ وَالْأَمَالِيَسَةُ: خشک جنگل۔ رج أَمَالِيَسٌ وَأَمَالِيَسٌ شَاذٌ ہے۔ المَلَاتُ وَالْمَمْلَسَةُ: بیگا۔ مروان۔ پٹیا۔ مَلَشَ (ن) مَلَشَا الشُّيِّ: ہاتھ سے نول کر کسی چیز کو ڈھونڈنا۔ المَمَالُوشُ عِنْدَ الْعَامَةِ: ایک کیزا ہے جو نباتات کی جڑوں کو کھا جاتا ہے۔ رج مَوَالِيَشُ۔ مَلِيَصُ (س) مَلَصَا الشُّيِّ مِنْ يَدِهِ: کھینے ہونے کی وجہ سے ہاتھ سے پھسل جانا۔ کہا جاتا ہے "مَلِيَصَتِ السَّمَكَةُ مِنْ يَدِي" مچھلی میرے ہاتھ سے نکل گئی۔۔۔۔۔ الرَّجُلُ: بھاگ لگتا۔ مَلَصُ (ن) مَلَصَا بِسَلْجِهِ: پانچا نہ کرنا۔ أَمَلَصَتِ الْحَائِلُ: حاملہ کا بچہ گرادینا۔ صفت مُمَلِيَصٌ وَنَمَلِيَصٌ: أَمَلَصَ الشُّيِّ: پھسلانا۔ تَمَلَصَ وَنَمَلَصَ وَأَمَلَصَ مِنْهُ: بچ لگتا۔ رہائی پانا۔۔۔۔۔ الشُّيِّ: مین نیدی۔ پھسل جانا۔ المَلَصُ: بیگا۔ المَلَصُ: مہم۔ پھسلنا۔ المَلِيَصُ: مِنَ الْجِبَالِ وَنَحْوِهَا: پہاڑ وغیرہ کی وہ چٹنی جگہ جہاں سے ہاتھ پھسل جائے اور پکڑنا دشوار ہو۔ سَفْكَةُ قَلْبَصَةٍ: پھسلنے والی مچھلی۔ المَلِيَصُ: بمعنی مَلِيَصُ: اسقاط شدہ بچہ۔ الأمَلَصُ: نرم وتر۔ رَجُلٌ أَمَلَصُ الرِّاسِ: سر پر بغیر بالوں کا مرد۔ المَمَلَاصُ: وہ عورت جس کو اسقاط کی عادت ہوگئی ہو۔ المَمَلَصُ: اسقاط شدہ بچہ۔ مَلَطَ (ن) مَلَطَا الْحَائِطُ: مٹی سے لیپنا۔۔۔۔۔ الشُّعْرُ: بال موٹنا۔ مَلَطَتْ وَأَمَلَطَتِ الْحَائِلُ جَنِينَهَا: حاملہ کا ناقص بچہ گرادینا۔ أَمَلَطَ رَيْشُ السُّهْمِ: تیر
---	--	---

کے پرکار کر جانا..... الرَّجُلُ بِمِجَانٍ هُوَ مَا
مَلَطَ (ن) وَمَلَطَ (ك) مَلُوطًا الْمَلَامُ:
غیر معروف النسب ہونا۔
مَلَطَ (س) مَلَطًا وَمَلَطَةً: بے بال کے جسم
والا ہونا۔
مَلَطَ الْحَايِطُ: دیوار کو مٹی سے لپینا.....
الشَّاعِرُ: ایک شاعر کا ایک مصرعہ پڑھنا اور
دوسرے کا شعر کو پورا کرنا۔
مَالَطَهُ مَسَالَطَةً: باہم ملنا۔ ایک شاعر کا
مصرعہ پڑھنا اور دوسرے کا شعر کو پورا کرنا۔
تَمَلَّطَ الشَّيْءُ: چمک دار ہونا..... السُّهُمُ:
تیر کا بے پر ہونا۔
اِمْتَلَطَ الشَّيْءُ: چمچین لینا۔ اُجُكَ لِينًا۔
السُّلَطُ: شریو بدکار جس پر پھر وسر نہ کیا جا
سکے غیر معروف النسب ج اَمْلَاطٌ وَمَلُوطٌ:
المِلَاطُ: لپینے کی مٹی۔ ج مَلُطٌ:
اَلْمَلَطُ ج مَلُطٌ وَالمَلِيطُ: بے بال کے
جسم والا۔ سَنَهُمُ اَمْلَطٌ وَمَلِيطٌ: بے پر کا
تیر۔ المَلِيطُ: بے بال کا سا تھمدہ بچہ۔
السُّمْلَاطُ مِنَ النُّوقِ: بچہ گرائے کی عادی
اونٹنی۔
مَلَعَ (ف) مَلَعًا وَمَلَعًا الشَّاةُ: بکری کی
کھال اتارنا۔ مَلَعَ الْفَصِيلُ اُمَّهُ: دودھ
پینا۔ اَمْتَلَعَ الشَّيْءُ: چمچین لینا۔ اُجُكَ لِينًا۔
مَلَعَتْ وَامْلَعَتْ وَامْتَلَعَتْ وَامْتَلَعَتْ
النَّافَةُ: اونٹنی کا تیز دوڑنا۔
المَلْعُ: بھس اور کہا جاتا ہے "هَمَّ عَلَيْهِ مَلْعٌ
وَاجِدٌ" وہ سب اس کی دشمنی پر جمع ہیں۔
السَّمْلِيقُ ج مَلْعٌ وَالمَلِيقُ: تیز رفتار گھوڑا یا
اونٹنی السَّمْلِيقُ: لبا۔ ادھر ادھر حرکت کرنے
والا۔
جَمَلٌ مَلُوعٌ: تیز رفتار اونٹ۔ مَوْنُثٌ
مَلُوعٌ غَفَابٌ مَلُوعٌ: تیزی سے چھینٹنے والا
عقاب۔
المَلَاعُ وَالمَلِيعُ: بے گھاس کا بیابان۔
مَالَعَةٌ مَسَالَعَةٌ بِالْكَلَامِ: ناشائستہ گفتگو سے
مزاح کرنا۔

تَمَلَّغَ لِي مَلَاغِيهِ: بے وقوف بننا۔
تَمَالَّغَ بِهِ: تسمخ کرنا۔
السَّمْلِيقُ ج اَمْلَاقٌ وَالمَسَالِيقُ ج مَلَاغٌ
وَالمَلَاغُ: مَوْنُثٌ مَلَاغٌ ج مَلْغٌ: فحش کلامی
کرنے والا۔ بدکار۔ بے وقوف۔
المَلُوعَةُ: بے وقوفی۔ فحش کلامی۔
مَلِيقَةٌ (س) مَلَقًا وَمَلِيقٌ لَهْ وَمَالِقَةٌ: چا پلوسی
کرنا۔ خوشامد کرنا۔ مَلِيقُ الْحَايِطِ مِنَ
الاصْبَحِ: ڈھیل ہونا۔
مَلَقَ (ن) مَلَقًا الشَّيْءُ: مٹانا۔ نرم کرنا.....
النُّوبُ: کپڑا اوصوٹا..... هُ بِالْعَصَاءِ: لاشی سے
مارنا۔ مَلَسَ النُّوْلُ اُمَّهُ: دودھ پینا.....
الرُّجُلُ: تیز چلنا..... الْجَارِيَةُ: جماع کرنا۔
مَلَقَ الْأَرْضُ او الْحَايِطُ: زمین یا دیوار کو
کرنی سے گلکاری کرنا..... هُ بِالْعَصَاءِ:
لاشی سے مارنا۔
مَلَقَ بِمِجَانٍ هُوَ جَانًا..... النُّوبُ: کپڑا اوصوٹا۔
..... الدُّهْرُ مَالَةٌ: ضائع کر دینا۔
تَمَلَّقَ تَمَلَّقًا وَتَمَلَّقًا الرَّجُلُ وَالرُّجُلُ:
چا پلوسی کرنا۔ تَمَلَّقَتِ الْمَرْأَةُ الْعَلَّكَ:
بغینیا چبانا۔
اِمْتَلَقَ وَامْتَلَقَ: نرم و چمکدار ہونا..... مِنْهُ: ج
لکھنا۔ اِمْتَلَقَ الْخِصَابُ: خضاب کا چھوٹ
جانا۔
اِمْتَلَقَ الشَّيْءُ: چمکانا۔
اِسْتَمَلَقَ النُّوْلُ اُمَّهُ: دودھ پینا۔
المَلِيقُ: بھس۔ دوستی۔ بڑی مہربانی۔ دعا۔
ہموار زمین۔ تیز رفتاری۔ کہا جاتا ہے "لِهَذَا
الْفَرَسِ مَلِيقٌ" اس گھوڑے میں تیز رفتاری
ہے۔
المَلِيقُ وَالمَلَاقُ: بہت چا پلوسی کرنے والا۔
المَلِيقُ: کمزور۔ فَرَسٌ مَلِيقٌ: گھوڑا جس کی
رفتار پر اعتماد نہ کیا جائے۔ مَوْنُثٌ مَلَقَةٌ:
المَلِيقُ: تیز رفتار۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ او
فَرَسٌ مَلِيقٌ" تیز رفتار مرد یا گھوڑا۔
المَلَقَةُ: چمکانا پھر۔
المَالِقُ وَالمَمْلِقُ وَالمَمْلَقَةُ: بیگانہ۔ المَالِقُ:

کرنی۔ (ڈھیل)
السَّمْلَاقُ: بہت محتاج۔ بہت چا پلوسی و
خوشامد کرنے والا۔
مَلِكٌ (ض) مَلِكًا وَمَلِكًا وَمَلِكَةً وَمَلِكَةٌ
وَمَمْلَكَةٌ وَمَمْلَكَةٌ وَمَمْلَكَةُ الشَّيْءِ: مالک
ہونا..... عَلِي الْقَوْمِ: غالب ہونا..... عَلِي
فُلَانٍ اَمْرًا: کسی کے کام پر حاوی ہونا.....
نَفْسُهُ: قابو رکھنا..... السَّمْرَاءُ: نکاح کرنا
(..... مَلِكًا) الْعَجِيْنُ: اچھی طرح سے
گوندھنا۔
مَلِكٌ الشَّيْءِ: مالک بنانا۔ مَلِكٌ الْقَوْمِ
فُلَانًا عَلَيْهِمْ: بادشاہ بنانا..... هُ اِمْرًا: نکاح
کرنا۔ مَلِكٌ فُلَانًا اَمْرًا: کسی کو اس کے
حال پر چھوڑ دینا۔ مَلِكْتُ الْمَرْءَ اَمْرًا:
طلاق کا اختیار روے دینا۔
مَلِكٌ الْعَجِيْنُ: اچھی طرح گوندھنا۔
اَمْلِكُهُ الشَّيْءُ: مالک بنانا۔ اَمْلِكُ الْقَوْمِ
فُلَانًا عَلَيْهِمْ: بادشاہ بنانا..... فُلَانًا اَمْرًا:
کسی کو اس کے حال پر چھوڑ دینا..... هُ
السَّمْرَاءُ: نکاح کرنا۔
تَمَلَّكَ وَامْتَلَكَ الشَّيْءُ: مالک ہونا۔
تَمَلَّكَ عَلِي الْقَوْمِ: بادشاہ بننا۔
تَمَالَّكَ عَنِ كَذَا: اپنے نفس پر قابو رکھنا۔
کہا جاتا ہے "مَا تَمَالَكَ أَنْ فَعَلَ او عَنِ
أَنْ فَعَلَ ذَلِكَ" یعنی فلاں فعل کے کرنے
سے وہ اپنے آپ کو نہیں روک سکا۔
المَمْلِكُ: بادشاہ۔ ج مَمْلُوكٌ وَامْتَلَاكَ
المَمْلِكُ: ملکیت۔ ج اَمْلَاكَ وَامْتَلَاكَ
قدرت کا جلی مڑکا دانہ۔ تَمَوَّرَ اِيَّانِي۔
مَمْلِكٌ السَّدَائِبَةِ: چار پائے کی ٹائیں اور
گرد میں۔ واحد مملک کہا جاتا ہے "قَالَهُ
مَمْلِكٌ وَمَالَهُ مَمْلِكٌ" یعنی اس کے پاس
کوئی چیز نہیں جس کا وہ مالک ہو کہا جاتا ہے
"هَذَا مَمْلِكٌ يَنْبِئِي" یعنی میں اس کا مالک
ہوں اور وہ میرے جتنے اور تصرف میں ہے
"وَلَيْسَ لَهْ مَمْلِكٌ" اس کے پاس پانی نہیں
اور اعطاسی من مملکہ" اس نے مجھ کو اس

زما نہ دراز۔ ج اَمَلَاءُ۔	رہنمائی جانور ہے جو حرکت کے مشابہ ہوتا ہے۔	میں سے دیا جس پر وہ قادر ہے۔ وَطَّال
الْفُلُؤَانُ: رات دن۔ واحد ملام۔	الْمَمْلُوكُ: مفتح۔ غلام۔ ج مَمَالِيكُ اور اسی سے ہے مَمَالِيكُ بَصْرًا: جو چرکس غلاموں کی ایک جماعت تھی جو مصر پر غالب آئی تھی اور مالک بن نبیسی تھی۔	ملكه: اس کی غلامی طویل ہے "وَمَلِكُ الطَّرِيقِ" راستہ کا وسط یا کنارہ۔ سارے معانی میں ميم کو تيموں حرکتیں ہیں۔
السَّمْلَاوَةُ وَالْمَلْوَةُ: بتلث الميم: زمانہ دراز۔	مَمْلُؤٌ: تیز دوڑنا۔ مَمْلُؤَةُ الْفَرَسِ: مضطرب کرنا۔	السلك: فرشتہ۔ انسان جس کا مالک ہو۔ کہا جاتا ہے "سَالَةَ مَلِكٌ" یعنی اس کے پاس کوئی چیز نہیں جس کا وہ مالک ہو۔
الْمَلْبِيُّ: زندگی کی مدت۔	تَمْلَمِلُ: غم یا مرض کی وجہ سے بستر پر کر و میں پڑنا..... الْجَالِسُ: بھیگی ایک پہلو پر ٹیک لگانا بھیگی دوسرے پر۔	السلاک: مالک: کا مختلف۔ بمعنی فرشتہ ج ملائکہ و ملائک۔ السلاک: اقتدار۔ و ملاک الأفسر: سپہا۔ سرمایہ۔ بقا۔ کہا جاتا ہے الْقَلْبُ مَلَکُ الْجَسَدِ: دل جسم کے لئے سرمایہ بقا ہے۔
الإملاء: مص۔ مہلت دینا۔ تاخیر کرنا۔ جو املا کیا جائے۔ ج اَمَالٍ وَأَمَالِي۔	السَّمْلُؤُلُ: سرمد کی سلائی۔ تاک کا سوراخ مَمْلُؤُ الْبَعِيرِ وَالتَّمْلِبُ: اونٹ اور لومڑی کا ذکر۔	السلاک: مٹی۔ جلاک الأفسر: سپہا۔ سرمایہ بقا۔
الصلاة: بنگر بڑھنا۔ ج مَلَأَ۔	السَّمْلَسِي: تیز رفتار۔ کہا جاتا ہے نَاقَةٌ مَمْلَسِي: تیز رفتار اونٹنی۔	السلاک: اللہ تعالیٰ۔ بادشاہ۔ صاحب قوت و اقتدار۔ ج مَلُوكٌ وَأَمَلَاكٌ۔
الصلی: زمانہ طویل۔ کہا جاتا ہے "انْتَظَرْتُهُ سَلِيًّا" زمانہ دراز تک میں نے اس کا انتظار کیا۔ "وَمَرَّ عَلَيَّ مِنَ اللَّيْلِ" رات کا تہائی حصہ گزر گیا اور بقول رات کا ایک حصہ گزر گیا جس کی کوئی حد معین ہیں۔	السَّمْلُؤُلُ: اونٹ اور لومڑی کا ذکر۔	السلاک: ملک: کی طرف نسبت۔ مؤنث ملکیت۔
الاصالی: املاکنے ہوئے اقوال وغیرہ اور یہ اَمَلَى الْكِتَابَ: کے مصدر الاملاء کی جمع ہے۔	السَّمْلَسِي: تیز رفتار۔ کہا جاتا ہے نَاقَةٌ مَمْلَسِي: تیز رفتار اونٹنی۔	السلاک: اللہ تعالیٰ۔ بادشاہ۔ صاحب قوت و اقتدار۔ ج مَلُوكٌ وَأَمَلَاكٌ۔
السَّمْلِيُّونَ لِسَى الْعَدُوِّ: دس لاکھ۔ ج مَلَائِيْنِ۔	السَّمْلُؤُلُ: اونٹ کا تیز چلنا۔	السلاک: ملکیت۔ ملکیت۔
بیم مرکب ہے من وما استفہامیہ سے۔	مَلَأَ اللَّهُ عُمُرَهُ: عمر طویل کرنا اور دیر تک نفع اٹھانے دینا۔ مَلَأَ اللَّهُ حَبِيبَهُ: اللہ تعالیٰ اس کو دیر تک حبیب سے نفع اٹھانے دے۔	السلاک: ملکیت۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مَلِكَةٌ يَمِينِي" یعنی میں اس کا مالک ہوں اور اس پر قادر ہوں۔ السلاک: وہ صفت جو نفس کے اندر رائج ہو جائے اور جب تک رائج نہ ہو اسے حال کہتے ہیں۔
الْمَامُوسُ وَالْمَامُوسَةُ: آگ۔ آتش دان۔ الماموسۃ: بوزبان بے وقوف عورت۔	مَلَيْتِي وَمَلَيْتِي حَبِيبٌ: اس نے اپنے حبیب سے دیر تک نفع اٹھایا۔	السلاک: فقا۔ بادشاہ۔ ج مَلِكٌ وَمَلَاكٌ۔ ابو مالک: بھوک یا بڑھا پا۔ مالک النخزین: بگا۔
بمن: حروف جر میں سے ہے۔ معانی ذیل میں مستعمل ہے۔	أَمَلَى إِمْلَاءً: اللہ فلانا عمرہ: عمر طویل کرنا اور دیر تک نفع اٹھانے دینا..... السَّعِيرُ وَ لِلْبَعِيرِ: بندھن کوڑھیلا کرنا..... اللہ الظالمِ وَ لَهٗ: مہلت دینا..... عَلَيْهِ الْكِتَابُ: بول کر لکھواتا۔	السلاک: الاملاک و المملاک و المملوکة: ملکیت۔ السلاکوت: بادشاہی۔ عزت و قدرت۔ السلاکوت السماوی: آسمان میں قدسیوں کی جگہ۔
(۱) ابتداء غایت زمانی جیسے مَرَضٌ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ۔	أَمَلَى إِمْلَاءً: اللہ فلانا عمرہ: عمر طویل کرنا اور دیر تک نفع اٹھانے دینا..... السَّعِيرُ وَ لِلْبَعِيرِ: بندھن کوڑھیلا کرنا..... اللہ الظالمِ وَ لَهٗ: مہلت دینا..... عَلَيْهِ الْكِتَابُ: بول کر لکھواتا۔	السلاک و المملکة و المملکة: ملکیت۔ ملکیت۔
(۲) ابتداء غایت مکانی جیسے سَارَ مِنْ بَيْرُوتَ۔	أَمَلَى إِمْلَاءً: اللہ فلانا عمرہ: عمر طویل کرنا اور دیر تک نفع اٹھانے دینا..... السَّعِيرُ وَ لِلْبَعِيرِ: بندھن کوڑھیلا کرنا..... اللہ الظالمِ وَ لَهٗ: مہلت دینا..... عَلَيْهِ الْكِتَابُ: بول کر لکھواتا۔	السلاک و المملکة و المملکة: ملکیت۔ ملکیت۔
(۳) تجنیس۔ جیسے مِنْهُمْ مَنْ أَحْسَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ أَسَاءَ۔	أَمَلَى إِمْلَاءً: اللہ فلانا عمرہ: عمر طویل کرنا اور دیر تک نفع اٹھانے دینا..... السَّعِيرُ وَ لِلْبَعِيرِ: بندھن کوڑھیلا کرنا..... اللہ الظالمِ وَ لَهٗ: مہلت دینا..... عَلَيْهِ الْكِتَابُ: بول کر لکھواتا۔	السلاک و المملکة و المملکة: ملکیت۔ ملکیت۔
(۴) تعلیل۔ جیسے مِمَّا خَطَبْنَا فِيهِمْ أَعْرَفُوا۔	أَمَلَى إِمْلَاءً: اللہ فلانا عمرہ: عمر طویل کرنا اور دیر تک نفع اٹھانے دینا..... السَّعِيرُ وَ لِلْبَعِيرِ: بندھن کوڑھیلا کرنا..... اللہ الظالمِ وَ لَهٗ: مہلت دینا..... عَلَيْهِ الْكِتَابُ: بول کر لکھواتا۔	السلاک و المملکة و المملکة: ملکیت۔ ملکیت۔
(۵) بدل۔ جیسے أَرْضُونَ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ۔	أَمَلَى إِمْلَاءً: اللہ فلانا عمرہ: عمر طویل کرنا اور دیر تک نفع اٹھانے دینا..... السَّعِيرُ وَ لِلْبَعِيرِ: بندھن کوڑھیلا کرنا..... اللہ الظالمِ وَ لَهٗ: مہلت دینا..... عَلَيْهِ الْكِتَابُ: بول کر لکھواتا۔	السلاک و المملکة و المملکة: ملکیت۔ ملکیت۔
(۶) مرادف یا جیسے يَنْظُرُونَ مِنْ طَرَفٍ خَفِيٍّ۔	أَمَلَى إِمْلَاءً: اللہ فلانا عمرہ: عمر طویل کرنا اور دیر تک نفع اٹھانے دینا..... السَّعِيرُ وَ لِلْبَعِيرِ: بندھن کوڑھیلا کرنا..... اللہ الظالمِ وَ لَهٗ: مہلت دینا..... عَلَيْهِ الْكِتَابُ: بول کر لکھواتا۔	السلاک و المملکة و المملکة: ملکیت۔ ملکیت۔
(۷) معنی فصل کا فائدہ بھی دیتا ہے جیسے	أَمَلَى إِمْلَاءً: اللہ فلانا عمرہ: عمر طویل کرنا اور دیر تک نفع اٹھانے دینا..... السَّعِيرُ وَ لِلْبَعِيرِ: بندھن کوڑھیلا کرنا..... اللہ الظالمِ وَ لَهٗ: مہلت دینا..... عَلَيْهِ الْكِتَابُ: بول کر لکھواتا۔	السلاک و المملکة و المملکة: ملکیت۔ ملکیت۔

واللہ یعلم المفسد من المصلح۔

(۸) زائدہ بھی ہوتا ہے اور زائدہ ہونے کے لئے تین چیزیں شرط ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے پہلے ٹہنی یا استفہام ہو۔ دوسرے یہ کہ مجرور نکرہ ہو۔ تیسرے یہ کہ مجرور فاعل یا مفعول بہ مبتدا ہو جیسے "ما جاء نسی من زجلی" "وبل ضربت من احد" و "فافی السذار من احد" ان کے علاوہ اور بھی معالی ہیں جو قرینہ سے مفہوم ہوتے ہیں۔

من: اسم شرط جازم ہے جیسے من یعمل خیرا یجربہ: اسم استفہام۔ جیسے من آتی اسم موصول اکثر استعمال ذوی العقول کے لئے ہوتا ہے۔ جیسے یجذ لک من فی السموات ومن فی الارض: نکرہ موصوف جیسے موزن بمن مفعول لک۔

من (ن) منا و میننی علیہ بگذا: بھلائی کرتا۔

من (ن) منا و منة و امنن و امننا۔ علیہ بما صنع: احسان جتنا۔ و امنن علیہ بگذا: بھلائی کرتا۔ و امنن فلانا: فلاں کے انتہائی چیز پہنچانا۔

من (ن) منا و امنن و تمنن الرجل: کمزور کرتا۔ قوت زائل کرنا۔ من الخیل: کاٹنا۔ من الشی: کم ہونا۔ الناقۃ: سفر کی وجہ سے لاغر کرنا۔ تمنن فلانا و تمنن علیہ: احسان جتنا کر تکلیف پہنچانا۔

منن تمنینا الناقۃ و بہا: اونٹنی کو سفر کی وجہ سے لاغر کرنا۔

منانۃ منانۃ: کسی کی حاجت روائی کے لئے آنا جانا۔

استمنۃ: طالب احسان ہونا۔

المنن: مص۔ احسان۔ انعام۔ ایک قسم کی شہین ہے جو پتھروں اور درختوں پر شہد کے مانند جم کر خشک ہو جاتی ہے۔ و منن نسبی اسرائیل: وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نازل کیا تھا تاکہ اس سے وہ اپنی غذا حاصل کریں۔ المنن: دور طل کا پیمانہ یا

میزان۔ من امنان۔

المنۃ: توت۔ ضعف۔ من منن۔

المنۃ: مص۔ احسان۔ کہا جاتا ہے "لہ علیٰ منۃ او منن" اس کا میرے اوپر احسان یا احسانات ہیں۔ المنۃ اسم ہے من علیہ سے اور اس سے ہے المنۃ تہدم الطبیعة: احسان کا جتنا احسان کو ضائع کر دیتا ہے۔ من منن۔

المنۃ: بکزی۔ مادہ سبکی۔

المنون: موت (موت ہے اور کبھی مذکر بھی استعمال ہوتا ہے) کہا جاتا ہے "ذہبت بہم المنون" موت نے ان کو تباہ ویرا دیا۔ زمانہ۔ زین المنون: حوادث زمانہ۔

المنون و المنونۃ: بہت احسان جتانے والا۔ تاہم مبالغہ کے لئے ہے۔ موت منون۔ المنونۃ: بکزی۔

المنان: بہت احسان کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ہے۔ بہت احسان جتانے والا۔ موت منانۃ۔

المنین: کمزور۔ قوی۔ غبار یا ہلکا پرانگندہ غبار۔ من منن و امنۃ۔

المننون: منہج۔ کتا ہوا۔ کمزور۔ قوی۔ ہر چیز کا بہترین حصہ جو کسی کے پاس ہو۔ کہا جاتا ہے "بلغت مننونۃ"۔

من (ف) منا الجلد: کھال کو دباغت دینا۔ فلانا: فعل کی موافقت کرنا۔

المنینۃ: کھال جس کو پہلی بار دباغت دی جائے۔ دباغت دینے کی جگہ۔

المنانۃ: کالی زمین۔

المنجیق و المنجلیق: جگہ میں قلعہ کی دیوار پر پتھر وغیرہ پھینکنے کی مشین۔ من منجیق و منجلیق و منجلیقات۔

منحۃ (ف ض) منحا الشی: دینا۔ عطا کرنا۔ الناقۃ و مکمل ذات لبن: اونٹنی یا

دودھ والے جانور کو فائدہ اٹھانے کے لئے دینا۔ صفت مفعولی المنحۃ و المنیحۃ۔ من منح و منانح۔

منحۃ منحا و منانحۃ: لگا تار عطیہ دینا۔ منحت العین: لگا تار آسوبہانا۔ الناقۃ: اونٹنی کا جائزے کے زمانہ میں جبہ اور اونٹنیوں کا دودھ دینا ختم ہو گیا ہو دودھ دینا۔

منحت الناقۃ: اونٹنی کا بچہ جننے کے قریب ہونا۔ صفت منصح۔

امتنح الرجل: عطیہ لینا اور کہا جاتا ہے "امتنح مالا" یعنی وہ مال کا رزق دیا گیا۔

امتنح المصبح: عاریت پر لینا۔

تمنح المال: دوسرے کو کھلانا۔

استمنحۃ: عطیہ طلب کرنا۔

المنحۃ: عطیہ۔ من منح۔

المناح: بہت دینے والا۔

المنوح: جائزے کے زمانہ میں اونٹنیوں کے دودھ ختم ہو جانے کے بعد دودھ دانی اونٹنی۔

المنیح: جوئے کے محروم تیروں میں سے ایک تیر۔

المنابح: جائزے کے زمانہ میں دودھ دینے والی اونٹنی۔ منطر منابح: لگا تار بارش۔ ریح منابح: ہوا جس کی بارش نہ رکے۔

المنزین: ایک درخت جس کا پھل مالے سے چھوٹا ہوتا ہے اس کو لیون یوسف آفندی بولتے ہیں۔ لذیذ پھل والا ہوتا ہے عام مالے کے باغوں میں پایا جاتا ہے۔

منذومذ: بھی ان کی میم کسور ہوتی ہے ان کی تین حالتیں ہیں۔

پہلی یہ کہ دونوں حرف جر ہیں۔ اگر زمانہ ماضی ہو تو من کے معنی میں جیسے "ما را ایضہ مذ یوم الاحد" اور اگر زمانہ حال ہو تو من کے معنی میں جیسے "را ایضہ مذ شہرنا" یعنی اس موجودہ مہینہ میں اور اگر معنی معدومہ میں تو من اور الی کے معنی میں جیسے "ما را ایضہ مذ ثلثہ ایام" یعنی میں نے اس کو تین دن سے یا تین دن تک نہیں دیکھا۔

دوسری یہ کہ اسم ان دونوں کے بعد مرغوع ہو جیسے "مَنَّا رَيْتَهُ مُذْ يُؤْمَنُ" کہا گیا ہے کہ یہ دونوں اس حالت میں ظرف ہیں جن کی اضافت جملہ کی طرف ہے جس میں فعل کو حذف کر دیا گیا ہے اور فاعل کو باقی رکھا گیا ہے اور اصل یوں ہے مُذْ كَانَ. یَوْمَانِ :-

اور تیسری حالت یہ ہے کہ ان کے بعد جملہ فعلیہ یا اسمیہ ہو جیسے "مَنَّا لَيْتُ أَبْغَى الْمَالِ مُذْ أَنَا يَبْفَغُ" میں جب سے جو ان ہوا ہوں مال ہمیشہ تلاش کرتا رہا۔ مشہور یہ ہے کہ یہ دونوں اس وقت ظرف ہیں جن کی اضافت جملہ کی طرف ہے اور مُذْ مُذْ كَمَا مُخْتَفٍ ہے اور یہ اس وجہ سے کہ اجتماع ساکنین کے وقت مُذْ کی ذال کو ضم دیتے ہیں جیسے مُذْ الْيَوْمِ الرَّاصِلِ میں ضم نہ ہوتا تو کسر دیتے :-

الْمَنْغِيضُ يَوْمٌ مِمَّنْ نَحْنُ
رمز (علامت) آئینہ کیمیائی نمبر

M-N - 25 - 54.93
الْمَنْسَةُ: کہن سال -

الْمَنْسُ: خوشی -
مَنْعَةٌ (ف) مَنَعًا وَمَنْعَةُ الشَّيْءِ مِنْهُ وَعَنْدَهُ: محروم رکھنا۔ روکنا۔ هُ الْقَاضِي عَنِ الْمِيْرَابِ: روکنا۔ هُ عَنِ الذُّعْوَى: باز رکھنا۔ مَنَعَ جَارَةً: حمایت کرنا اور تکلیف سے بچانا۔

مَنْعٌ (ك) مَنَاعَةٌ وَمَنَاعًا: قوی ہونا۔
الْحِضْنُ: قلعہ تک پہنچ و شوار ہونا۔

الشَّيْءُ: بلند مرتبہ و شوار ہونا۔ صفت مَنِيْعٌ مَنَاعَةٌ: حمایت کرنا۔ هُ الشَّيْءُ: جھگڑا کرنا اور مَنِيْعٌ کرنا۔

تَمَنَعٌ وَامْتَنَعٌ عَنِ الشَّيْءِ: روکنا۔ اِمْتَنَعُ الشَّيْءُ: ناممکن الحصول ہونا۔ تَمَنَعٌ وَامْتَنَعُ بِقَوْمِهِ: حفاظت میں آنا۔ قوت پکڑنا۔

تَمَنَاعًا: باز رہنا۔ عَنِ انْفُسِهِمَا: ایک دوسرے کی حمایت کرنا۔

الْمَنْعُ: مصل۔ کیکڑا۔ اِنْ مَنُوْعٌ: رَجُلٌ مَنَعٌ: اپنے نفس کو باز رکھنے والا مرد۔

الْمَنْعَةُ: عزت۔ قوت۔ رج مَنَعَاتٍ اور کہا جاتا ہے "اللَّهُمَّ مَنَعَاتٍ" ان کے ایسے مضبوط قلعے ہیں جن پر دشمن قاور نہیں ہو سکتا۔

الْمَنْعَةُ وَالْمَنْعَةُ: قوت۔ شوکت۔
الْمَنْعَاعَةُ: مصل۔ یعنی الطَّبُّ: ایسی قوت جو جسم کو حاصل ہو جائے اور آئندہ امراض سے محفوظ رکھے۔

الْمَنْعَاعُ: مَنَاعُونَ وَمَنْعَةٌ: فا۔ کجوں۔ بخیل رج مَوَالِيْعٌ: روکنے والا۔

مَنْعٌ: اسم فعل ہے بمعنی اِمْنَعُ.
السَّمْنُوعُ وَالْمَنْعَاعُ: بہت زیادہ مَحُّ کرنے والا۔ الْمَنْعَاعُ: کجوں۔ بخیل۔

الْمَنْعِيُّ: اسم ہے بمعنی اِمْتِنَاعُ.
الْمَنْعِيْعُ: غالب وقوی کہ جس پر کوئی قادر نہ ہو سکے۔ مَوْثِقٌ مَنِيْعَةٌ: حِصْنٌ مَنِيْعٌ: بلند و مضبوط قلعہ جس پر پہنچنا دشوار ہو۔

مَنَّا يَمْنُوْ مَنَّا الرَّجُلُ: آزمائش کرنا۔ صفت مَفْعُولٌ مَمْنُوْ بِكَذَا.

الْمَنَّا: پیمانہ یا وزن مساوی دور طرل۔ شئی مَنَوَانٌ وَمَنِيَانٌ مَنَ اَمْنَاءُ وَأَمْنٌ وَمَنِيٌّ اور اسی معنی میں الْمَنْسَلَةُ بھی ہے۔ کہا جاتا ہے "ذاری مَنَّا ذَارَهُ" میرا گھر اس کے گھر کے مقابل ہے۔

مَنَسَا: مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان قبیلہ ہذیل اور خزاعہ کے ایک بت کا نام۔

الْمَنْوَةُ: آرزو۔

مَنْسِيٌّ مَنِيْبِيٌّ مَنِيْبًا اللَّهُ الْخَيْرُ لِفُلَانٍ: مقدر کرنا۔ مَنَسَا: آزمائش کرنا۔ کہا جاتا ہے مَنَسَا اللَّهُ بِكَذَا: یعنی اللہ اس کو فلاں چیز میں مبتلا کرے۔

مَنْسِيٌّ لِبِكَذَا: توفیق دیا جانا۔ بِكَذَا: آزمائش کیا جانا۔

مَنْسِيٌّ تَمْنِيَّةُ الرَّجُلِ الشَّيْءِ وَبِالشَّيْءِ: آرزو دلانا۔

مَنْسِيٌّ مَنَسَانَةُ الرَّجُلِ: مدارات کرنا۔ مہلت دینا اور انتظار کرنا۔ بدلہ دینا۔ السَّرْوَيْقِيُّ: باری باری سوار ہونا۔

أَمْنِيٌّ اِمْنَاءُ الدَّمَاءِ: خون بہانا۔ گرانہ۔ السَّحَابُ: حاجیوں کا منی میں آنا یا نازل ہونا۔ اَمْنِيٌّ: منی گرانہ۔

اِسْتَمْنِيٌّ بِالْيَدِ: جلق لگانا۔ بغیر جماع کے منی نکالنا۔

اِمْتَنْسِيٌّ اِمْتِنَاءُ الشَّيْءِ: جھوٹ گھڑنا۔ السَّحَابُ: حاجیوں کا منی میں آنا یا نازل ہونا۔

تَمَنِيٌّ الشَّيْءِ: ارادہ کرنا۔ الکُتَابُ: پڑھنا۔ الرَّجُلُ: جھوٹ بولنا۔ الْحَدِيْثُ: جھوٹی بات گھڑنا۔

الْمَنْيَّةُ: مَنَسَا وَمَنْيَا وَالْمَنْيُ: موت۔ الْمَنْيُ: ارادہ۔ تقدیر الہی۔ تم کہتے ہو "اِنْسَارِضِ بِمَنْيِ اللّٰهِ" یعنی میں تقدیر الہی پر راضی ہوں اور کہا جاتا ہے "هُوَ مَنِيٌّ بِمَنْيِ بَيْتِ" وہ مجھ سے ایک میل کے اندازہ پر ہے۔

الْمَنْيَةُ وَالْمَنْيَةُ: مَنِيٌّ وَمَنْيٌ وَالْمَنْيَةُ: مَنَانٌ وَأَسَانِيٌّ: آرزو۔ مَطْلُوبٌ: الْاَمْنِيَّةُ: جھوٹ۔

الْمُنْتَمِيَّاتُ: تمنا میں۔

الْمَنْمُوكُ: درمیانہ قد کا پودا جو برازیل کے جنگلات میں ہوتا ہے اس کے تنے سے آنا نکالا جاتا ہے۔

مَنْهُ: اسم فعل مبنی علی السكون۔ بمعنی رک جا اور کبھی کہا جاتا ہے مَنِيْہ۔

مَنْهُ (ن) مَنَّا الْاِبِلُ: اونٹ کے ساتھ نرمی برتنا۔

مَنْهَةٌ (س) مَنَهْنَا الشَّيْءُ: نرم ہونا۔ السَّمْنَاءُ: نرمی تازگی۔ خوبصورتی۔

خوبصورت (۔) وَالْمَنْهَةُ: سیر و سفر کا ساتھی۔ امید۔ المنہ: رفیق۔ نرمی۔

الْمَنْهَرُ وَالْمَنْهَارُ: امیر۔ والی۔ (ذخیل)

مَنْهَجٌ (ف) مَنَهَجًا: بیماری کے بعد چہرے پر رونق آنا۔ الْوَلَدُ اَمْنَةٌ: دودھ پینا۔

الْمَجَارِيَةُ: جماع کرنا۔ اَمْنَهَجُ الرَّجُلُ: خون تھک لیا جانا۔

السَّاهِجُ: فا۔ خالص دودھ۔ پتلا دودھ یا

چربی۔	ماہرۃ مُمَاهِرَة: ماہر ہونے میں مقابلہ کرنا۔	چینا۔
الْمِهْرَجَة: خون یا دل کا خون۔ روح۔	تَمَهَّرَ: ماہر ہونا، حاذق ہونا۔ تیرنا۔	المَهْق: مہس۔ پانی پر کی سبزی۔
وَمُهْرَجَة كُلُّ شَيْءٍ يَرْتَجَى كَمَا يَهْتَرُ وَرِخَالِصٌ۔	النُّهْرُ: مہس۔ نکاح کے عوض مالی ج مہوڑ	الْأَمُهْق: بغیر چمک کے بہت سفید جیسے چونا۔
ج مہج و مہجات۔	وَمُهْوَرَة اور کہا جاتا ہے "هَذَا مَهْرٌ ذَلِكْ"	مَوْنَتْ مَهْقَاءَ ج مَهْقٍ۔
الْأَمُهْجِ وَالْأَمُهْوُجِ وَالْأَمُهْجَاعِ: خالص	یہ اس کے بدلے میں ہے۔	المُهْقَة: بغیر چمک کے بہت سفید رنگ۔
دودھ۔	النُّهْرُ: بچھیرا۔ گھوڑی گدھی کا پہلا بچہ۔ ج	مَهْك (ف) مَهْكَا وَمَهْكُ الشَّيْءِ:
کہا جاتا ہے رَجُلٌ مَسْمُوجٌ الْبَطْنِ: ڈھیلے	بِهَارٍ وَأَمُهَارٍ وَمَهَارَة مَوْنَتْ ج مَهْوَرَة ج	خوب پیسا۔ باریک پیسا۔ مہکے: نرم و
پیٹ کا مرد۔	مُهْرٍ وَمُهْرَاتٍ وَمُهْرَاتٍ. الْمُهْرُ: درمیانی	چمکدار کرنا۔ مَهْكُ فِي الشَّيْرِ: جلدی
مَهْد (ف) مَهْدُ الْفَرَّاشِ: بستر بچھانا۔	سیت کی ایک ہڈی۔ اندر این کا چھل۔ کبوتر کا	کرنا۔
لِنَفْسِهِ: کمائی کرنا۔ کام کرنا۔	بچہ۔ ج مَهْوَرَة.	تَمَهَّك فِي الْعَمَلِ: اچھے طریقے سے کرنا۔
مَهْدُ الْفَرَّاشِ: بستر بچھانا..... الْأَمْرُ: درست	السَّهْوَرَة مِنَ النِّسَاءِ: بہت مہروالی عورت	ہاتھ سے منقش کرنا۔
وہموار کرنا۔ لَهْ الْعُدْرُ: عذر خواہی کرنا	ج مَهَائِرُ.	إَمَهْكُ الرَّجُلِ: کم گوشت والا ہونا.....
..... الْفُلَانُ عَذْرَةٌ: قبول کرنا..... لِنَفْسِهِ	السَّاهِرُ: حاذق۔ اچھا تیرنے والا۔ ج	كُوَشْشُ كَرْنَا۔
خَيْرًا: اپنے لئے بھلائی مہیا کرنا۔	مَهْرَة.	تَمَاهَك الْقَوْمَ: باہم جھگڑنا۔
تَمَهَّدُ الْفَرَّاشِ: بستر بچھانا..... لَهْ الْأَمْرُ:	المَهْرِيَّة: سرخ گیہوں۔ الْإِبِلُ الْمَهْرِيَّةُ:	مَهْكَةُ الشَّبَابِ وَمَهْكَةُ: جوانی کی رونق و
آسان ہونا..... الرَّجُلُ: قادر ہونا۔	مہرۃ بن حیدان کی طرف منسوب اونٹ جن	تروتازگی۔
إَمَهَّدَ الشَّيْءَ: بچھانا..... الرَّجُلُ: کمائی کرنا	کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ تیز رفتاری میں	المَهْوُكُ: نرم کمان۔
کام کرنا۔	کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ ج	السَّمَهْكُ وَالْمَسْمَهْكُ: جوانی سے
إِسْتَمَهَّدَ فَرَّاشًا: بستر بچھانا۔	مہاری و مہار و مہاری۔	بھر پور۔ کہا جاتا ہے شَابٌ مَسْمَهْكٌ.
المَهْدُ: گہوارہ۔ پست زمین ج مَهْوَة.	الْمَهْرُ جَانٌ: (فارسی لفظ) فرس (اہل	المَسْمَهْكُ: لمبا بے ڈول۔
المَهْدُ ج مَهْدَةٌ وَأَمُهَادٌ وَالْمَهْدَةُ ج	فارس) کے نزدیک یہ دو لفظوں سے مرکب	مَهْل (ف) مَهْلًا وَمَهْلَةٌ وَتَمَهَّلَ فِي
مَهْدُ: نرم و پست ہموار زمین۔	ہے۔ مہر کا معنی محبت اور جان کا معنی روح۔	الْعَصْلِ: الطمینان سے بغیر جلد بازی کے کام
المِهْيَادُ: بچھونا۔ پست زمین۔ ج مَهْدُ	یعنی روح سے محبت۔	کرنا۔
وَمَهْدٌ وَأَمُهْدَةٌ.	المَهْرُ جَانٌ: پارسیوں کی ایک عید۔	مَهْل (س) مَهْلًا الرَّجُلُ: بھلائی میں پیش
المَهْيَادُ: خالص مسک۔	مَهْرَة (ف) مَهْرًا. بیدہ: دفع کرنا۔ بنانا۔	قدمی کرنا۔ صفت مہل۔
المَسْمَهْدُ: منع مہاء مَسْمَهْدٌ: پانی نہ گرم نہ سرد۔	مَهْشَة (ف) مَهْشًا: جلانا۔ کھرچنا۔	أَمَهْلَةٌ وَمَهْلَةُ الذَّنِينِ: مہلت دینا۔ اَمَهْلُ
مَهْر (ف ن) مَهْرًا وَمَهْوَرًا وَمَهَارًا	إِمَهْشُ: جلانا۔	وَمَهْلُ الرَّجُلِ: نرمی برتنا..... فِي الْأَمْرِ:
وَمَهَارَة الشَّيْءِ وَفِيهِ وَبِه: حاذق ہونا۔	مَهْضُ الْقَوْبِ: کپڑا پاک صاف کرنا۔ سفید	مبالغہ کرنا۔ عذر کرنا۔
صفت ماہر۔ کہا جاتا ہے "مَهْرٌ فِي الْعِلْمِ"	کرنا۔	إِسْتَمَهَّلَ: مہلت مانگنا۔
یعنی علم میں حاذق و ماہر ہوا۔ فِي صِنَاعَتِهِ:	تَمَهَّصَ فِي الْمَاءِ: پانی میں گھسنا۔	السَّمَهْلُ وَالْمَهْلُ: مہس۔ نرمی آ سکتی۔ میت
تجربہ کار و ماہر ہونا۔	إِمَهَّصَتْ الْأَرْضُ: بے نباتات ہونا۔	کی پیپ اور کہا جاتا ہے "مَهْلًا وَعَلْسِي
مَهْر (ف ن) مَهْرًا وَأَمُهْرُ النَّرْوَةِ: مہر دینا	صفت مَهْضَاءُ.	مَهْل" یعنی بچھیر جا جلدی نہ کر اور یہ مصدر ہے
یا مہر متحرر کرنا۔ وَأَمُهْرُهَا: مہر کے بدلے	مَهْق (س) مَهْقًا: بہت سفید ہونا۔	جو فعل کے قائم مقام ہے اور واحد متشذج
میں کسی شخص سے نکاح کرنا۔ صفت مفعولی	مَهْقَت (ف) مَهْقًا النَّخِيلُ: گھوڑے کا	بذکر مونسٹ سب کے لئے ہے السَّمَهْلُ: کسی
مُسْمَهْرَةٌ. وَأَمُهْرَتِ الْفَرَسِ: بچھیرے یا	دوڑنا۔ مَهْقُ الْفَصِيلِ: اونٹ کے بچہ کو پانی	مخمس کے گزرے ہوئے لوگ۔ سوار ہونے
بچھیری والی ہونا۔	پلانا۔	سے پہلے معاملہ کی ہدایت۔ پیش قدمی۔ کہا
مَهْرٌ. بچھیرا مانگنا یا حاصل کرنا۔	تَمَهَّقُ الشَّرَابُ: تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد	جاتا ہے فَلَانٌ ذُو مَهْلٍ: فلاں بھلائی میں

پیش قدمی کرنے والا ہے۔

المُهَيَّل: معدنی جوہر۔ جیسے چاندی تانبا لوہا وغیرہ پگھلی ہوئی دھاتیں۔ پتلا قطران۔

زیتون کا پتلا تیل۔ زبر۔ پیپ۔ یا خاص مردہ کی پیپ روٹی سے جو رکھ چمڑے۔

المُهَيَّلَة: مہس۔ راکھ میں بقیہ چنگاری۔

آبِجَنی و زری: کہا جاتا ہے "مَشِي عَلِي مُهَيَّلِي" کہا جاتا ہے "مَشِي عَلِي مُهَيَّلِي" وہ آہستہ آہستہ چلا۔ پتلا قطران۔

شمار۔ کہا جاتا ہے "خُذِ الْمُهَيَّلَةَ فِی اَنْبَرِكَ" یعنی اپنے معاملہ میں سامان کولو۔

"وَاحْذِ عَلِي فَلَانِ الْمُهَيَّلَةَ" یعنی وہ اس سے عمر یا ادب میں بڑھ گیا۔

المُهَيَّلَة والمُهَيَّلَة والمُهَيَّلَة: پیپ یا خاص مردہ کی پیپ۔

المُهَيَّل: فا..... مِنَ الرَّجَالِ لَمِبَا۔

مُهَيَّمَا: اسم شرط جازم ہے۔ غیر عاقل کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور طرف زمان ہے جیسے مُهَيَّمَا يَرْزُقُنِي زَيْدٌ اَكْرَمُهُ: جب

زید مجھ سے ملے گا تو اس کا اکرام کروں گا اور مجھے غیر طرف ہوتا ہے جیسے مُهَيَّمَا تَفْعَلْ اَفْعَلْ: جو تو کرے گا میں کروں گا۔

مُهَيَّمَةٌ عَنِ الشُّغْرِ: روکنا۔ مُهَيَّمَةٌ فَلَانًا: مہ

مہ کہہ کے ڈالنا۔

تَمَهَيَّمَةٌ عَنِ الشُّيْ: باز رہنا۔ رکنا۔

السُّهَيَّمَةُ وَالْمُهَيَّمَةُ: دور کا جنگل۔ ویران ملک۔ ج مہایہ۔

مُهَيَّنَ (ف ن) مُهَيَّنًا وَمُهَيَّنَةً وَالْمُهَيَّنَةَ الرَّجُلُ: خدمت کرنا۔

مُهَيَّنَ (ف ن) مُهَيَّنًا: اپنا پیشہ کرنا۔

الرَّجُلُ: مارنا اور تپنی کرنا۔ القُوبُ: بھینچنا۔

یوسیدہ کرنا۔ الجَوَارِيَةُ: بھاج کرنا۔

مُهَيَّنَ (ك) مُهَيَّنَةً: حقیر و کمزور ہونا۔

مَاهَنَةٌ مُسَاهَنَةٌ: مشتق کرنا۔

أَمُهَيَّنَةٌ: کمزور کرنا۔ خدمت لینا۔

إِنْمُهَيَّنَ الشُّيْ: حقیر کرنا۔ یوسیدہ کرنا۔

السَّرْجُلُ: خدمت میں رکھنا۔ الرَّجُلُ: خدمت میں مشغول ہونا۔

المُهَيَّنَةُ وَالْمُهَيَّنَةُ وَالْمُهَيَّنَةُ: کام کی مہارت۔ خدمت۔ کہا جاتا ہے "قَامَتِ السَّرَاةُ بِمُهَيَّنَةِ بَيْتِهَا" عورت اپنے گھر کے کام کاج کے لئے مستعد ہوئی "وَمَا مِهَيَّتُكَ هُنَا" یہاں پر تمہارا کیا عمل ہے "وَهُوَ فِي مِهَيَّنَةِ أَهْلِيهِ" وہ اپنے لوگوں کی خدمت میں مشغول ہے "خَرَجَ فِي سَابِ مِهَيَّتِي" وہ اپنے کام کاج کے کپڑوں میں نکلا۔ ج مہن و مہن۔

المَاهِنُ: فا۔ خادم۔ غلام۔ ج مَهَانٌ وَمُهَيَّنَةٌ وَمِهَانٌ: مؤنث مآہنَةٌ ج مَوَاهِنُ. المَهَيَّنُ: حقیر۔ کمزور۔ کم بھج۔ ج مَهَيَّنَاءُ. مَهَا يَمْهَهُ مَهْوًا الرَّجُلُ: بہت مارنا۔ مَهَا يَمْهَهُ مَهَا. السَّقْرَةُ الوَحْشِيَّةُ: نیل گائے کا خالص سفید ہونا۔

مُهَوٌ يَمْهُو مَهَاةً اللَّبَنُ او السَّمْنُ: دودھ یا گھی کا پتلا ہونا۔ صفت مَهْوٌ. أَقْمَى اللَّبَنُ: دودھ میں زیادہ پانی ملانا۔

الْحَدِيدَةُ: لوہے کو تیز کرنا۔ الفَرَسُ: رشی دراز کرنا۔ دوڑا کر گرم کرنا۔ اِسْمُ المَهَيَّنِي: اور کہا جاتا ہے "حَفَرَ البَنَرُ حَتَّى أَقْمَى" اس نے کنواں کھودا یہاں تک کہ پانی تک پہنچ گیا۔ اَمُهَيِّي فَلَانٌ: تعریف میں خوب مبالغہ کرنا۔ اَلْحَجَلُ: رشی کو ڈھیل دینا۔

الْقِدْحُ: تیرکی کچی کو درست کرنا۔ الْقَبْرُ: باغی میں پانی بڑھا دینا۔ اَمُهَيَّتِ العَيْنُ: آنسو بہانا۔

السُّهْوُ: مہس۔ سفید کلکری۔ موتی۔ بلور۔ اول۔ تازہ بھجوریں۔ تپنی تلوار۔ بہت پانی والا دودھ۔

السُّهْوَةُ: نیل گائے (جس سے آنکھوں کی خوبصورتی میں تشبیہ دی جاتی ہے) آفتاب۔ بلور۔ ج مَهَيَّتَا وَمَهَيَّوَاتٍ وَمَهَيَّاتٍ.

مَهِي مَهِي وَيَمُهِي مَهِيًا وَمَهِيًا وَمَهِيًا: الشُّغْرَةُ او الْحَدِيدَةُ: پتلا کرنا۔ تیز کرنا۔ وَمَهِي الشُّيْ: لمب کرنا۔

اِسْتَمَهَى الفَرَسَ: چھوڑے کو پوری رفتار پر چھوڑ دینا۔ السَّقْوَمُ: دشمن کی سفوں کو توڑ دینا اور شکست دینا۔

مَهِيَمٌ: کلمہ استفہام ہے یعنی تمہارا کیا حال ہے یا تمہیں کیا ہوا۔ یا کیا خبر ہے۔

مَسَاءٌ يَمُوءُ مَسَاءً وَأَمْسَاءُ السِّنُورُ: بلی کا میاؤں میاؤں کرنا۔ وَأَمْسَاءُ الرَّجُلُ: بلی کی طرح آواز کرنا۔

المَائِيَّةُ وَالْمَائِيَّةُ وَالْمَائِيَّةُ: بلی۔

مَاتَتْ يَمُوتُ مَوْتًا: مرنا۔ مَاتَتْ الرَّيْحُ: ہوا کا رک جانا۔ النَّارُ: آگ کی راکھ ٹھنڈی ہونا۔ مَاتَتْ الحِجْرًا وَالْبُرْدُ: گرمی یا سردی کا زائل ہونا۔ مَاتَتْ النُّحْيُ: بخار کا جوش کم ہونا۔ مَاتَتْ النَّوْبُ: کپڑے کا یوسیدہ ہونا۔

مَاتَتْ يَمُوتُ مَوَاتًا مَوَاتًا الْمَكَانُ: ویران ہونا۔ السَّطْرِيْقُ: راستہ چلنا بند ہونا۔ کہا جاتا ہے "مَاتَ فَوْقَ الرَّجُلِ" یعنی گہری نیند سو گیا۔

مَوَاتَةٌ: مار ڈالنا۔ موت دینا۔

أَمَاتَهُ اِمَاتَةً: مار ڈالنا۔ اَمَاتَ نَفْسَهُ: مظلوم کرنا۔ غَضَبُهُ: غصہ پی جانا۔ الرَّجُلُ: مرے ہوئے بچوں والا ہونا۔ السَّاقَةُ او السَّرَاةُ: مرے ہوئے بچہ دالی ہونا۔ صفت سُمِيَّتٌ وَمُيَمِّيَّةٌ ج مَسَاوِيَّتٌ القَوْمُ: مرے ہوئے جانوروں والا ہونا۔ اَمَاتَ السُّخْمُ: خوب اچھی طرح پکانا اور جوش دینا اور کہا جاتا ہے "مَسَا اَفْوَنُهُ" یعنی وہ کیسا مردہ دل ہے۔

أَمِيَّتِ السُّفْطَةُ: لفظ کا استعمال چھوڑ دیا جانا۔

مَسَاوَاتٌ مَسَاوَاتٌ قِرْنَةً: باہم مہر کرنا۔

تَمَسَّوَتْ: جنگل مرد ہونا۔ خاموشی اور کمزوری ظاہر کرنا۔

اِسْمَاتٌ اِسْمَاتَةٌ وَاِسْمَاتَانَا: موت چاہنا۔ ہر طریقے سے کسی چیز کو طلب کرنا۔

لَاغْرِي كَيْ بَعْدَ مَوْتِي ہونا۔ القُوبُ: کپڑے کا یوسیدہ ہونا۔ الشُّيْ: ڈھیل ہونا۔

مَاتَتْ يَمُوتُ مَوَاتًا مَوَاتًا الْمَكَانُ: ویران ہونا۔ السَّطْرِيْقُ: راستہ چلنا بند ہونا۔ کہا جاتا ہے "مَاتَ فَوْقَ الرَّجُلِ" یعنی گہری نیند سو گیا۔

مَوَاتَةٌ: مار ڈالنا۔ موت دینا۔

أَمَاتَهُ اِمَاتَةً: مار ڈالنا۔ اَمَاتَ نَفْسَهُ: مظلوم کرنا۔ غَضَبُهُ: غصہ پی جانا۔ الرَّجُلُ: مرے ہوئے بچوں والا ہونا۔ السَّاقَةُ او السَّرَاةُ: مرے ہوئے بچہ دالی ہونا۔ صفت سُمِيَّتٌ وَمُيَمِّيَّةٌ ج مَسَاوِيَّتٌ القَوْمُ: مرے ہوئے جانوروں والا ہونا۔ اَمَاتَ السُّخْمُ: خوب اچھی طرح پکانا اور جوش دینا اور کہا جاتا ہے "مَسَا اَفْوَنُهُ" یعنی وہ کیسا مردہ دل ہے۔

أَمِيَّتِ السُّفْطَةُ: لفظ کا استعمال چھوڑ دیا جانا۔

مَسَاوَاتٌ مَسَاوَاتٌ قِرْنَةً: باہم مہر کرنا۔

تَمَسَّوَتْ: جنگل مرد ہونا۔ خاموشی اور کمزوری ظاہر کرنا۔

اِسْمَاتٌ اِسْمَاتَةٌ وَاِسْمَاتَانَا: موت چاہنا۔ ہر طریقے سے کسی چیز کو طلب کرنا۔

لَاغْرِي كَيْ بَعْدَ مَوْتِي ہونا۔ القُوبُ: کپڑے کا یوسیدہ ہونا۔ الشُّيْ: ڈھیل ہونا۔

السُّوْتِ وَالسُّوْتَةُ: موت۔ السُّوْتُ
الْأَحْمَرُ: قتل سے جو موت واقع ہو۔ السُّوْتُ
الْأَبْيَضُ: موت طبعی یا اچانک موت۔
السُّوْتُ الْأَسْوَدُ: گلا گھونٹنے سے جو موت
واقع ہو۔

السُّوْتَةُ: جنون کی ایک قسم۔ مرگی۔
السُّوْتَةُ السُّوْتَةُ: کاموٹ۔ مردار۔ ج
میتات۔

السُّوْتَةُ: مرنے کی حالت۔ کہا جاتا ہے
"مَاتَ مَيْتَةً صَالِحَةً" و "مَاتَ مَيْتَةً سُوءًا"
(اچھی اور بُری طرح مرنا)

الميتو: موت۔ (مولدہ)
السُّوْتَانُ وَالسُّوْتَانُ: جانوروں کی مرئی اور
کہا جاتا ہے "هَذَا سُوْتَانُ الْفُؤَادِ" یعنی یہ
بلید الطبع ہے۔ مَوْتٌ سُوْتَانَةٌ۔

السُّوْتَانُ: موت۔ غیر ذی روح۔ کہا جاتا
ہے "الْأَشْرُ مِنَ السُّوْتَانِ وَلَا تَشْتَرُ مِنَ
السُّوْتَانِ" یعنی زمین مکانات وغیرہ خریدو
اور غلام جانور وغیرہ مت خریدو اور کہا گیا
ہے کہ سُوْتَانٌ اس زمین کو کہتے ہیں جس میں
آبادی نہ ہو۔

السُّوْتَانُ: قریب المرگ۔ کہا جاتا ہے "فَوْتٌ
مَاتَتْ" یعنی سخت موت۔

السُّوْتَانُ: اموات و موتی و مینون۔
و السُّوْتَانُ ج مَيْتُونَ: مردہ۔ مَوْتٌ مَيْتَةٌ
و مَيْتٌ و مَيْتَةٌ ج مَيْتَاتٌ و مَيْتَاتٌ۔

السُّوْتَانُ: موص۔ غیر ذی روح۔ غیر آباد
زمین یا وہ زمین جس سے کوئی فائدہ نہ
اٹھائے۔

السُّوْتَانُ: موت۔ یا زمانہ موت۔
السُّوْتَانُ مِنَ اللَّفْظِ: متروک الاستعمال
لفظ۔

السُّوْتَانُ: مینتہ۔ گناہ کبیرہ۔
السُّوْتَانِيَّةُ: فاقہ طالب قتل جو لڑائیوں میں
موت کی پروا نہ کرے۔ تکلف مجنوں بننے
والا۔ انڈے کی سفیدی کا باریک چھلکا۔

مَاتَ يَمُوتُ مَوْتًا و مَوْتَانًا الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ:
ماتت۔

مخلوط کرنا..... الشَّيْءُ فِي السَّاءِ: پانی میں
گھسنا۔ اِنْمَاتٌ: مخلط ہونا۔ صل ہونا۔ صل
جانا۔

فَسَاحٌ يَمُوجُ مَوْجًا و مَوْجَانًا و مَمَوْجٌ
الْبَحْرُ: سمندر کا موج مارنا۔ فَسَاحُ الْقَوْمِ:
مضطرب ہونا۔ بے ترتیب ہونا۔ فَسَاحٌ عَنِ
الْحَقِّ: حق سے تجاوز کرنا۔

السُّوَجُ: موص۔ لہر۔ واحد سُوَجَةٌ۔ ج
أَمْوَاجٌ. و مَوْجَةٌ الشَّبَابُ: آغاز جوانی۔
السُّوَجُ: بہت موج مارنے والا۔

فَسَاحٌ يَمُوجُ مَوْجًا الْقَضْبُ: غصہ کا ٹھنڈا
ہونا۔

السَّادُ: اچھی خصلتوں والا ہونا۔ خوش طبع
(اصل اس کی مَوْدُ ہے)

السَّادِيُّ: سفید شہد۔ یا عمدہ شہد۔ ہر قسم کے
تھیار (..... و السَّادِيَّةُ نِزْمٌ زَرَّةٌ۔
السَّادِيَّةُ: شراب۔

مَازَ يَمُورُ مَوْزًا الْبَحْرُ: موج زن ہونا.....
الدَّمُ عَلَى الْأَرْضِ: خون کا زمین پر پھیل کر
بہنا..... الدَّمُ: خون کو زمین پر پھیلا کر بہانا

..... الشَّيْءُ: آگے پیچھے تیزی سے ہلنا.....
السُّوَابُ: غبار کا اٹھنا۔ برا بھینٹ ہونا۔ مَازَتْ
السُّوَابُ السُّوَابُ و نَبَأُ السُّوَابِ: ہوا کا مٹی کو
اٹھانا۔ برا بھینٹ کرنا۔ مَازَتْ السُّوَابُ عَنِ
الْجَسَدِ: پشم کو جسم سے اکھیڑنا۔ السِّنَانُ فِي
الْمُطْفَعُونَ: بھالے کا زخمی کے بدن میں ہلنا۔

أَمَّازَ الدَّمُ: خون بہانا۔ أَمَّازَتْ السُّوَابُ
السُّوَابُ: ہوا کا مٹی کو اٹھانا برا بھینٹ کرنا۔ أَمَّازَ
السِّنَانُ فِي الْمُطْفَعُونَ: بھالے کا زخمی کے
بدن میں ہلنا۔

تَمُورٌ: تردد کی حالت میں آنا جانا.....
السُّعْرُ: بالوں کا ادھر ادھر ہونا اور کہا جاتا
ہے "تَمُورُ الْوَبْرُ و نَحْوَهُ عَنِ الدَّابَّةِ" جبکہ
بال یا اون وغیرہ گر جائیں..... الشَّيْءُ: کسی
چیز کا مضطرب ہونا اور جلدی جلدی حرکت
کرنا۔

..... السُّوَسِيُّ: کسی
چیز کا مضطرب ہونا اور جلدی جلدی حرکت
کرنا۔

..... السُّوَسِيُّ: کسی
چیز کا مضطرب ہونا اور جلدی جلدی حرکت
کرنا۔

..... السُّوَسِيُّ: کسی
چیز کا مضطرب ہونا اور جلدی جلدی حرکت
کرنا۔

..... السُّوَسِيُّ: کسی
چیز کا مضطرب ہونا اور جلدی جلدی حرکت
کرنا۔

..... السُّوَسِيُّ: کسی
چیز کا مضطرب ہونا اور جلدی جلدی حرکت
کرنا۔

..... السُّوَسِيُّ: کسی
چیز کا مضطرب ہونا اور جلدی جلدی حرکت
کرنا۔

..... السُّوَسِيُّ: کسی
چیز کا مضطرب ہونا اور جلدی جلدی حرکت
کرنا۔

إِنْمَاتٌ إِمْتِيَانًا السَّيْفُ: تلوار سونگنا۔
مَازَى و مَازِي: سر پائی کلمہ ہے اس کے معنی
سید کے ہیں اور اکثر اس کا استعمال مقدس
لوگوں کے لئے ہوتا ہے۔ اور مَوْتٌ کے
لئے مَوْتٌ کہا جاتا ہے۔

السُّوَرُ: موص۔ نزم چیز۔ چلتا ہوا ہموار
راستہ۔ تیزی۔

السُّوَرُ: ہوا میں اُڑنے والا غبار۔ مٹی جس کو
ہوا اڑائے۔ ایک قسم کے مینے۔

السُّوَرَةُ و السُّوَرَةُ: گرمی ہوئی اون۔
السُّوَرَةُ: چیز جو کسی چیز سے گرے۔ فانی چیز
کا کچھ باقی حصہ۔

السُّوَرَةُ: فاقہ۔ کم سمجھ۔ سُنْهُمٌ مَازِي: گھس جانے
والا ہلکا تیر۔ مَوْتٌ مَازِيَةٌ۔ ج مَازِيَاتٌ
و مَازِيَةٌ۔

السُّوَرَةُ: اسم مبالغہ۔ رَفْحٌ سُوَرَةٌ و أَرْبَابٌ
مُورٌ: مٹی برا بھینٹ کرنے والی ہوا۔

السُّوَرُجُ: بھینٹ کرنے والوں کا آلہ جس کو
کھلیان پر چھماتے ہیں اس کو پھلسا کہتے
ہیں۔

السُّوَرُ كَسٌ: ایک سیپی پاؤں والی پیٹ
والے کھلے منہ والی کانٹے والی جس کو ہر سو
چلاتی ہے سرخ رنگ والا سیلان بھائی ہے

پرانے زمانے میں لوگ اس سے سرخ رنگ
حاصل کرتے تھے۔

السُّوَرُ: کیلے کا درخت۔ کیلا۔ واحد مَوْزَةٌ۔
السُّوَرُ: کیلہ۔ بیچنے والا۔

السُّوَرُجُ: موزہ۔ ج مَوْزِجٌ و مَوْزِجَةٌ۔
مَاسٌ يَمُوسُ مَوْسًا الرَّاسُ: سر موٹنا۔

السُّوَسُ: ہیرا۔ کہا جاتا ہے "زَجَلٌ مَاسٌ"
بے حس مرد جس پر عتاب و دخل کا کوئی اثر نہ
ہو۔

السُّوَسِيُّ: استرا۔ (مذکر و مؤنث) ج
مَوَاسٍ و مَوَسِيَاتٍ۔

السُّوَسِيَّةُ: گانے کا نغمہ۔
السُّوَسِيَّةُ: گانے والا۔ گویا۔

مَاسٌ يَمُوسُ مَوْسًا الْكِرْمُ: توڑنے کے

..... السُّوَسِيُّ: کسی
چیز کا مضطرب ہونا اور جلدی جلدی حرکت
کرنا۔

بعد پانی مانده انکور چھنا۔

السَّاش: اڑو۔ واحد ساشة: گھر کا معمولی سامان۔

الْمُوسَلِين: روٹی کا باریک نرم کپڑا۔

مَاصُ يَمْسُوصُ مَوْصًا وَمَوْصُ الثَّوْبُ: کپڑا اٹھونا۔ مَاصُ الشَّيْءِ: ہاتھ سے ملنا۔

المَوْصُ: مضم۔ بھوسہ۔

السُّوَاصَةُ: پانی جس سے برتن یا کپڑے وغیرہ دھوئے گئے ہوں۔

مَوْعَةُ الشَّبَابِ: آغاز جوانی۔

مَسَاغٌ يَمْسُوْغٌ مَوْعًا وَمَوْعًا الْبِنُوْرُ: بلی کا میاؤں میاؤں کرنا۔

مَنَاقٍ يَمْنُوقُ مَوْفًا الْمَبْنِيعُ: ارزاں ہونا۔

الطَّعَامُ: تلہ مندا ہونا۔

مَنَاقٍ يَمْسُوقُ مَوْفًا وَمَوْفًا وَمَوْاقَةً وَمَوْوَقًا الرَّجُلُ: بے وقوف ہونا۔ ہلاک ہونا۔

تَمَاقٍ: تماقت ظاہر کرنا۔

إِنْسَاقُ الْبِنْيَاقِ: ہلاک ہونا۔

إِسْتِمَاقٌ إِسْتِمَاقَةٌ: بے وقوف کھنا۔

الضَّاقِقُ: بے وقوف۔ ہلاک ہونے والا۔

کہا جاتا ہے "الْحَصْفُ مَالِقٌ" وہ بڑا سخت بے وقوف ہے۔ ج مَوْفِي۔

السُّوْفِيُّ: مضم۔ بے وقوفی۔ عبادت۔ غبار۔ پر والی چپوٹی۔ گوشہ چشم۔ مونا موزہ جو باریک موزہ پر پہنا جائے۔ ج مَوْفَاقٍ۔

مَسَالٌ يَمْسُولٌ وَيَمْسَلُ مَوْلًا وَمَوْوَلًا: بالدار ہونا یا بہت مال والا ہونا۔ کہا جاتا ہے "مَسَا أَمْوَلَةٌ" وہ کسی قدر بالدار ہے۔

مَعَالَةٌ يَمْوَلُهُ مَوْلًا وَأَمَالَةٌ إِمَالَةٌ: مال دینا۔ مَوَلَةٌ: بالدار بنانا۔

تَمَسَّوْلُ الْمَسَالِ: اپنے لئے جمع کرنا۔

وَإِسْتِمَالٌ: مال حاصل کرنا یا بہت مال والا ہونا۔

السَّمَالُ جَ أَمْوَالٌ: مال و دولت۔ اہل بادیاہ کے نزدیک اس کا اطلاق چوپایوں پر ہوتا ہے جیسے اونٹ بکری وغیرہ۔ مذکر و مؤنث ہے۔ کہا جاتا ہے "هُوَ الْمَالُ وَهِيَ الْمَالُ"

اور کہا جاتا ہے "خَرَجَ الشَّيْءُ مَالِيَهُ" یعنی اپنی جائیداد یا اپنے اونٹوں کی طرف گیا۔ ج

مَسَالَةٌ وَمَسَالُونٌ: بہت مال والا مرد۔ کہا جاتا ہے جَزَجْلٌ مَسَالٌ: بہت مال دار مرد۔ مؤنث مَسَالَةٌ جَ مَالَةٌ وَمَالَاتٌ۔

المُؤَلُّ: بکڑی۔ واحد مؤلَّةٌ۔

السَّمَالِيَّةُ: نایت۔ دولت۔ مال کے متعلق مولدین اس کا اطلاق مال پر بھی کرتے ہیں۔

المُؤَلُّ والمَمِيلُ: بہت مال والا۔

المُؤَلُّ: مال کی تصغیر۔ رجب کا مہینہ۔ جِيْمَةٌ مَوْمًا الرَّجُلُ: برسام کی بیماری لاحق ہونا یا سخت چھپک ہونا جس میں سارا جسم ایک زخم بن جائے۔ صفت مفعولی مَوْمٌ۔

مَوْمٌ مِيْمًا: حرف میم لکھنا۔

السُّوْمُ: موم۔ جلاہوں کا نال۔ مویجوں کا ایک آلہ۔ السُّوْمَاءُ وَالْمَوْمَاءُ: وسیع بیابان یا بے پانی کا بیابان۔ ج المَوَامِي۔

السُّوْمِيَاءُ: ایک قسم کی دوا۔ قدما مصر کے طریقہ پر حنوط لگائے ہوئے اجسام۔

مَسَانَةٌ يَمْسُونُهُ مَوْنًا وَمَوْنَةً وَمَوْنَةٌ: نان فقط برداشت کرنا۔ صفت مَسَانِيْنٌ۔ مَنَاقٍ الْأَرْضُ: زراعت کے لئے زمین جو تباہ۔

تَمَسَّوْنٌ: نان فقط جمع کرنا۔ بال بچوں پر زیادہ خرچ کرنا۔

السُّوْنَةُ: گزارے کا ذخیرہ۔ ج مَوْنٌ۔

بَيْتُ السُّوْنَةِ: گزارہ جمع کرنے کی کوٹھری۔

السُّوَانُ: ذخیرہ جمع کرنے والا۔ ذخیرہ مہیا کرنے والا۔

مَاهَةٌ تَمْوَةٌ وَمَاهَةٌ مَوْهًا وَمَاهَةٌ وَمَوْوَهًا. الْمَيْتُ: کنوئیں کا بہت پانی والا ہونا۔

..... وَالسَّفِينَةُ: کشتی میں پانی داخل ہونا۔

مَاءٌ يَمْوُهُ مَوْهَا الرَّجُلُ: پانی پلانا۔ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: ملنا۔

أَسَاهُ إِسَاهَةٌ وَأَمَوَهُ أَمَوَاهَا الشَّيْءُ: ملنا۔

الشَّيْءُ: ملنا۔ الرَّجُلُ: پانی پلانا۔

السُّوْحُضُ: حوض میں پانی جمع کرنا۔

السُّوَالَةُ: دوات میں پانی ڈالنا۔۔۔۔۔ السُّوْرُ:

کنواں کھود کر پانی نکالنا۔۔۔۔۔ السُّوَجِيْنُ:

چھری پر پانی چڑھانا۔ آصاھت السَّمَاءُ: بہت پانی برسنا۔۔۔۔۔ الْأَرْضُ: بہت پانی والا ہونا۔

مَمَوَةٌ الْمَكَانُ: پانی والی ہونا۔۔۔۔۔ السُّوَالَةُ:

ہانڈی میں پانی بڑھانا۔۔۔۔۔ الشَّيْءُ بِمَاءِ السُّوَالَةِ أَوْ الْفِطْصَةِ وَنَحْوَهُمَا: سونے یا چاندی کا پانی چڑھانا۔۔۔۔۔ عَلَيْهِ الْأَمْرُ وَالْغَيْرُ: جموں بات خلاف واقعہ بنانا۔

تَمَمَوَةٌ: سونے چاندی وغیرہ کا پانی چڑھنا۔

السُّوَالَةُ: انکور کارس دار ہونا اور پکنے کے قریب ہونا۔۔۔۔۔ الْمَكَانُ بِالْقَبْلِ: سبزہ زار ہونا۔

السَّمَاءُ: پانی (اصل مَمَوَةٌ ہے) تصغیر مَمَوِيَّةٌ اور نسبت کے لئے مَمَائِيٌّ وَمَمَائِيٌّ وَمَاهِيٌّ جَ مِيْسَاءٌ وَأَمْوَاءٌ. وَمَسَاءُ الْوَزْدِ وَمَسَاءُ الزُّهْرِ وَنَحْوَهُمَا: گلاب وغیرہ کا پانی جو عرق کھینچنے سے نکلے۔ مَسَاءُ الْوَجْهِ أَوْ مَسَاءُ الشَّبَابِ: چہرہ یا جوانی کی رونق و تروتازگی۔ مَسَاءُ الشَّبَابِ: تلوار کی چمک دمک۔ مَسَاءُ الْمَاءِ: پانی کے آس پاس رہنے والے پرندے۔ مَسَاءُ الْبِنْسِ الْمَاءِ: الْمَاءُ الْأَزْرَقُ: موتیابند۔

المَسَاءُ: پانی اور نسبت کے لئے مَسَاهِيٌّ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ مَسَاهُ الْفَوَادِ وَمَسَاهِيٌّ الْفَوَادِ" یعنی بزدل۔ بليد الطبع۔

المَسَاءَةُ: پانی۔ تصغیر مَمَوِيَّةٌ۔

السُّوَاهَةُ وَالْمَوْاهَةُ مِنَ الْوَجْهِ: رونق و حسن۔

المَاهَةُ: مضم۔ بچیک۔ بِنْرٌ مَاهَةٌ: بہت پانی والا کنواں۔

السَّمَاهِيَّةُ مَمَوْتٌ الْمَسَاهِيٌّ: مَاهِيَّةُ الشَّيْءِ: حقیقت "شَسْرٌ مَسَاهُوٌّ" سے نکلا ہوا۔ ج مَاهِيَّاتٌ۔

السَّمَائِيَّةُ وَالْمَمَائِيَّةُ: مِنَ الشَّجَرِ: وہ سائل چیز جس سے درخت کو غذا حاصل ہو۔

الْمَمَائِيَّةُ: آئینہ۔ ج مَمَائِيٌّ۔

زَكِيَّةٌ مُّهِتَةٌ: بہت پانی والا کواں۔

الأموة: اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے "البئرُ هذِهِ السَّنَةُ أمْوُهُ مِمَّا كَانَتْ" یعنی کواں امسال بہ نسبت پہلے کے زیادہ پانی والا ہے۔

المؤوهة: مشع۔ ناخن والی آنکھ۔

ماتٌ يَمِيْتُ مَيْتًا: مرنا۔

المسَاهِيَةُ ج مَسَاهِيَاتٌ: ماہانہ اجرت (تخوہ) یہ لفظ "ماہ" کی طرف منسوب ہے جس کا معنی مہینہ ہے۔

ماتٌ يَمِيْتُ مَيْتًا وَمَيَّتُ الشَّيْ فِي الْمَاءِ: کھلانا۔ حل کرنا۔ مَيَّتُ الرَّجُلُ: ذلیل کرتا۔

تَمَيَّتُ الشَّيْ فِي الْمَاءِ: کھلانا۔ حل ہونا۔ الرَّجُلُ: ذلیل ہونا۔ تَمَيَّتُ الْأَرْضُ: بارش سے نرم ہونا۔ الْحِرَارَةُ: شہنشاہی ہونا۔

إِنْمَاتٌ إِنْسِيَانًا الشَّيْ فِي الْمَاءِ: پانی میں حل ہونا۔

إِنْمَاتُ الرَّجُلُ: زندگی کی راحت پانا۔ الْأَقْطُ: خیر کو پانی میں بھگو کر کھانا۔ الشَّيْ فِي الْمَاءِ: کھلانا۔ حل کرنا۔

الْمَيْتُ: نرم۔

أَرْضٌ مَيْتَةٌ: بغیر ریت والی نرم زمین۔

الْمُسْتَمِيَّتُ: اندے کی سفیدی کا پارک چھلکا۔

مَاجٌ يَمِيخُ مَيْخًا الشَّيْ: مخلط ہونا۔

مَاجٌ يَمِيخُ مَيْخًا وَمِيخُوخَةٌ: چلو سے پانی لینا۔ أَصْحَابُهُ: لوگوں کے لئے چلو چلو پانی لانا۔ الرَّجُلُ: نفع دینا۔ عِنْدُ الْأَمِيرِ: سفارش کرنا۔ کہا جاتا ہے "مسخني عِنْدَ الْأَمِيرِ" یعنی سفارش امیر سے کرو۔

مَسَاخِبُ الرِّيْحِ الشَّجَرَةَ: جھکا ماساخ الرَّجُلُ: ناز و انداز سے چلنا۔ مَسَاخُهُ يَمِيحُهُ مَيْحًا وَمِيحَةٌ: دینا۔

مَسِيحٌ تَمَسِيحًا الْغَضْنَ: جھلکانا۔ پلٹنا۔

السُّكْرَانُ: چلنے میں ڈمگانا۔

مَايحَةٌ مَنايحةٌ: ملانا۔

إفْسَاحُ الْمَاءِ: چلو لینا۔ الرَّجُلُ: طلب فضل کے لئے کسی کے پاس آنا۔ إِمْسَاحُهُ الْحَرُّ أَوْ الْعَمَلُ: پینے میں شرابور کرنا۔

تَمَسِيحٌ: ناز و انداز سے چلنا۔ داکیں بائیں جھلکانا۔

تَمَانِيحٌ: ڈمگانا۔

إِسْتِمَاحَةٌ إِسْتِمَاحَةٌ: عطیہ مانگنا۔ سفارش کرنے کی درخواست کرنا۔

الْمَتَانِيحُ ج مَسَاحَةٌ وَالْمَتِيحُ: چلو سے پانی پلانے کی درخواست کرنے والا۔

مَسَاخٌ يَمِيخُ مَيْخًا وَمَتَمِيخُ الرَّجُلُ: ناز و انداز سے چلنا۔

مَسَادٌ يَمِيحُ مَيْحًا وَمَيْدَانٌ: پلٹنا۔ جھلکانا۔ کہا جاتا ہے "مَسَادٌ يَهْدِي الْأَرْضُ" زمین اس کے ساتھ گھوم گئی۔ الْغَضْنُ: ہنسی کا جھلکانا۔ پلٹنا۔ الرَّجُلُ: ناز و انداز سے چلنا۔ سر چکراتا۔

وَمَسَادُ الرَّجُلُ: زیارت کرنا۔ بہتر سلوک کرنا۔

تَمَانِيْدٌ: نشاط سے جھومنا۔

تَمَيَّدَتِ الْمَرْأَةُ: عورت کا ناز سے چلنا۔

إِمْتَاذٌ إِمْتِيَاذًا: غلج جمع کرنا۔ عطیہ طلب کرنا۔ کہا جاتا ہے "إِمْتَاذُوهُ فَمَا ذَهَبُ" یعنی لوگوں نے اس سے عطیہ طلب کیا اور اس نے دیا۔

الْمَتَانِيْدُ: جھلکانے والا۔ سر میں چکر والا۔ ج

مَيْدَى: غَضْنَ مَائِدًا: جھلکانے والی ہنسی۔

غَضُونٌ مَيْدٌ: جھلکانے والی ہنسیاں۔

المَائِدَةُ: المَائِدَةُ: کاموث۔ دسترخوان جس پر کھانا ہو۔ کھانا۔ زمین کا دائرہ ج مَسَائِدٌ وَمَائِدَاتٌ۔

مَيْدٌ: بید میں ایک لغت نادرہ۔

المَيْدَةُ: مَادٌ: کا اسم مرہ۔ کھانا۔ دسترخوان جس پر کھانا چننا ہوا ہو۔

مَيْدَى: بمعنی مَنْ أَجَلِي کہا جاتا ہے "فَعَلَهُ مَيْدَى ذَلِكُ" اس نے اس کو اس کی وجہ سے کیا۔ و بمعنی "جَدَاءُ" کہا جاتا ہے "ذَارِي مَيْدَى ذَارَهُ" میرا مکان اس کے مکان کے مقابل ہے۔

مَيْدَاءُ الشَّيْ: قیاس و انداز۔ انتہا اور پہا جاتا ہے "هَذَا مَيْدَاءُ ذَلِكُ وَبِمَيْدَائِهِ" یعنی یہ اس کے مقابل ہے۔

الْمَيْدَانُ وَالْمَيْدَانُ: گھوڑوڑ یا کھیل کود کے لئے کشادہ جگہ۔ ج مَيْدَانِيْنٌ۔

المَيْدَادُ: بہت جھومنے والا۔ مَوْنَتٌ مَيْدَادَةٌ۔

المَيْوُدُ: بہت بٹنے والا۔

المُتَمَادُ: عطیہ مانگنے والا۔ جس سے عطیہ مانگا جائے۔

مَازٌ يَمِيزُ مَيْزًا وَأَمَازٌ: عَيْالُهُ: اہل و عیال کے لئے نان و نفقہ لانا۔ الدَّوَاءُ وَنَحْوُهُ: کھلانا۔ مَازُ الصُّوْفِ: اون و دھتکنا۔ مَازٌ أَوْ ذَوَاجَةٌ: رگیں کا ٹٹا۔

مَاسِيْرُهُ مَمَاسِيْرَةٌ: خوراک لانا۔ مقابلہ کرنا۔ نَقْلٌ آتَارًا۔

تَمَاسِيْرٌ تَمَاسِيْرًا مَاسِيْرًا: فساد واقع ہونا۔

إِمْتَازٌ لِعِيَالِهِ أَوْ لِنَفْسِهِ: خوراک جمع کرنا۔

السَّمِيْرُ: مَصٌ۔ خوراک۔ کہا جاتا ہے "مَاسَا عِنْدَهُ خَيْرٌ وَلَا مِيْرٌ"۔

المَيْرَةُ: خوراک جس کو انسان ذخیرہ کر کے رکھے۔ ج مِيْرٌ۔

السَّمَايِرُ: خوراک لانے والا ج مِيَارٌ وَمِيَارَةٌ۔

السَّمَاوَرَةُ: اون کا ردی حصہ جو دھتکے کے وقت گرے۔

مَازٌ يَمِيزُ مَيْزًا وَمَيْزٌ وَأَمَازُ الشَّيْ: علیحدہ کرنا۔ جدا کرنا۔ الشَّيْ: ترجیح دینا۔ مَازٌ فَلَانٌ: ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔

تَمَيِّزٌ وَأَمَازٌ أَمَيِّازًا وَأَمْتَازٌ: تَمَيِّزٌ فَلَانٌ وَمَسْمَازٌ: جدا ہونا۔ وَتَمَيِّزٌ فَلَانٌ مِّنَ الْغَيْظِ: غصہ سے پھٹ پڑنا۔ أَمْتَازٌ السَّمَاوَرَةُ: بعض کا بعض سے جدا ہونا۔

وَأَسْمَازٌ: جدا ہونا۔

تَمَاسِيْرُ الْقَوْمِ: متفرق ہونا۔ گروہ بندی کرنا۔

السَّمِيْرُ وَالْمَيْزُ: مضبوط پھلوں والا۔

السَّمِيْرُ: مَيْزٌ: کا مصدر۔ قوت نفسانی جس

سے معانی کا استنباط ہو۔ علم نحو کی ایک اصطلاح۔ بَيْنُ التَّمْيِيزِ: نفع ضرر پہنچانے کی عمر۔
الإمْتِيزَاة: مصل۔ کسی چیز کے بچنے یا کسی کام کے کرنے کی اجازت کا خاص پروانہ۔
الْمِيزَابُ (مولدۃ)

مَسَّسٌ يَمِيْسٌ مَيْسًا وَمَيْسَانًا وَمَيْسَسٌ الرَّجُلُ: ناز و انداز سے چلنا۔ صفت مَيْسَسٌ وَمَيْسٌ وَمَيْسَانٌ وَمَيْسُوسٌ مَيْسٌ الْفُؤَادُ: دامن بنانا۔

الْمَيْسِسُ: مصل۔ ایک بڑا درخت جس کی لکڑی سے کجاوہ بنایا کرتے تھے اور اس کے دانے کالے اور بیٹھے ہوتے ہیں۔ واحد مَيْسَةٌ الْمَيْسِسُ: ایک قسم کی گھنٹھس۔ دو بیلوں کے درمیان لمبی لکڑی۔ کجاوہ۔

الْمَيْسَسُ: اتر کے چلنے والا شیر۔ بھیڑیا۔
الْمَيْسَانُ: بہت تیز چمکنے والا ستارہ ج مَيْسَانِسٌ

فَاشٌ يَمِيْسُ مَيْسًا الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: ملانا۔
السَّفَاةُ: بھن سے آدھا دو دھو دھنا۔
السَّخِيْرُ: کچھ تھلانا۔ کچھ چھپانا۔ کہا جاتا ہے "فَاشُوا الْأَرْضَ مَيْسَةً" وہ زمین پر گزرے۔

مَاطٌ يَمِيْطُ مَيْطًا وَمَيْطَانًا وَأَمَاطٌ إِمَاطَةٌ عَنْ كَذَا: جدا ہونا۔ دور ہونا۔ کہا جاتا ہے "مَيْطٌ عَسَابِيَا فَلَانٌ" یعنی اے فلاں ہم سے دور ہو۔ مَاطُهُ وَأَمَاطُهُ وَمَاطٌ بِهِ: جدا کرنا۔ دور کرنا۔ لے جانا۔ مَاطُ الرَّجُلُ: ظلم کرنا۔

کہا جاتا ہے "مَاطَ عَلِيٌّ فِي حُكْمِهِ" اس نے اپنے فیصلہ میں میرے اوپر ظلم کیا۔
فَلَانًا: ڈانٹنا۔ بھانا۔ الشَّيْءُ: جانا۔
مَيْطٌ تَمِيْطًا بَيْنَهُمَا: مائل کر دینا۔

تَمَاطِطُ الْقَوْمِ: فساد و فحش ہونا۔ ایک دوسرے سے بچید ہونا۔

عَاطِطٌ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ: ترجیح دینا۔
الْمَيْطُ: مصل۔ کہا جاتا ہے "مَا عِنْدَهُ مَيْطٌ"

اس کے پاس کچھ نہیں "وَأَمْتَلَا حَتَّى لَا يَسْجُدَ مَيْطًا" بھر گیا یہاں تک کہ اب مزید گنجائش نہیں "وَأَمْرُؤٌ وَمَيْطٌ" سخت معاملہ۔
المَيْطُ: دفع۔ ڈانٹ۔ جھکاؤ۔ ادب اور تواضع (جس طرح بیاط کے معنی اقبال اور قربت کے ہیں) اور اسی سے ہے "أَضْبَحُوا فِي هَيْبَاتٍ وَمَيْبَاتٍ" وہ لوگ اقبال و ادب میں ہیں۔

المَيْبَاتُ: بے ہودہ کھیل کود میں رہنے والا۔
مَسَاعٌ يَمِيْعٌ مَيْعًا الشَّيْءُ: زمین پر پھیل کر بہنا۔ کہا جاتا ہے "السَّرَابُ يَمِيْعُ" سراب زمین پر پھیل کر جاری ہے۔۔۔۔۔ نَاصِيَةٌ الْفَرَسُ: گھوڑے کی پیشانی کے بال طویل ہونا اور ٹلنا۔۔۔۔۔ الْفَرَسُ: گھوڑے کا دوڑنا (.....) وَإِنَّمَا عَا وَنَمَاعًا وَتَمِيْعًا تَمِيْعًا السَّمْنُ: گھی کا پھل کر بہنا۔ صفت مَسَاعٌ مَوْثِقَةٌ مَائِعَةٌ كَمَا جَاءَتْ فِي السُّوْطَةِ: چاندی کھالی میں پھل کر بہ رہی ہے۔

أَمَاعٌ إِمَاعًا وَإِمَاعَةٌ الشَّيْءُ: بہانا۔
مَيْعَةٌ الشَّيْءُ: اول شے۔ اصل شے۔ کہا جاتا ہے "مَيْعَةُ الشَّيْبَانِ" آغاز جوانی "وَمَيْعَةٌ الشُّكْرِ" ابتدائی نشو و نما "مَيْعَةُ الْفَرَسِ" گھوڑے کی دوڑ کا آغاز۔ کہا جاتا ہے "الْفَرَسُ فِي مَيْعَةِ جَرْيِهِ" گھوڑا اپنی دوڑ کے آغاز میں ہے۔ المَيْعَةُ: زمین پر بہتی ہوئی چیز کا سیالان۔ ایک درخت کا خوشبودار گوند۔

المَصَاعُ: بیٹے والی چیز۔ بے وقوف۔
السَّمَاعَةُ: المَصَاعُ: کا مَوْثِقٌ۔ گھوڑے کی پیشانی کے بال جبکہ طویل ہوں۔ ایک درخت کا خوشبودار گوند۔ ج مَوَائِعُ

الْمَيْعَةُ السَّنَائِلُ: ایک خوبصورت درخت جو ادویات میں استعمال ہوتا ہے۔

مَالٌ يَمِيْلُ مَيْلًا وَتَمِيْلًا وَمَيْلَانًا وَمَيْلَوْلَةٌ وَمَيْلًا وَمَيْلَانًا إِلَى الْمَكَانِ: لوٹنا۔۔۔۔۔ إِلَى الشَّيْءِ أَوْ الشَّخْصِ: رجعت کرنا۔ محبت کرنا

..... عَنِ الطَّرِيقِ: تجاوز کرنا۔ چھوڑ دینا۔
السَّائِبُ: دیوار کا جھکننا۔۔۔۔۔ الْحَاكِمُ فِي حُكْمِهِ: ظلم کرنا۔۔۔۔۔ عَلَيْهِمُ الدَّهْرُ: زمانہ کا مصائب ڈالنا۔ مَسَالُ بَفْلَانٍ: نقاب ہونا۔
مَسَالُ الشَّيْءِ: جھکانا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ لَا تَمِيْلُ عَلَيْهِ الْمَوْبَعَةُ" یعنی فلاں بہت قوی ہے۔

مَسَالَتْ تَمِيْلُ مَيْلًا. الشَّمْسُ: آفتاب کا ڈھلنا یا غروب کے قریب ہونا۔ مَسَالُ النَّهَارِ أَوْ اللَّيْلِ: دن یا رات کا ختم ہونے کے قریب ہونا اور کہا جاتا ہے "مَسَالُ بِنَا الطَّرِيقِ" یعنی دور ہونا۔

مَيْلٌ (س) مَيْلًا: خلقتنا جھکا ہوا ہونا۔ صفت مَمِيْلٌ بھی اسی کا استعمال عبارات کے متعلق ہوتا ہے۔

مَمِيْلٌ تَمِيْلًا الشَّيْءُ: جھکانا۔۔۔۔۔ قَبِي الْأَمْرِ: شک کرنا۔۔۔۔۔ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ: تردد اور ترجیح دینا۔ جیسے "قَرَبْتُ لَهُ طَعَامًا فَمَمِيْلٌ فِيهِ لِقَبْلِهِ" اس نے کھانا پیش کیا اور کم ہونے کی وجہ سے تردد رہا کہ کھائے یا چھوڑ دے۔

أَمَالٌ إِمَالَةٌ الشَّيْءُ: جھکانا۔۔۔۔۔ يَدُهُ بِالْفَرَسِ: لگام ڈھیل کرنا۔ مَسَالَتْ الْمَرْأَةُ: نقاب اتارنا۔ مَسَالُ الْقَارِي: پڑھنے میں امانہ کرنا۔

مَسَائِلَةٌ مَسَائِلَةٌ: موافقت کرنا۔ مدد دینا۔
لَوْثٌ ذَالِنًا: مائل ہونا۔ محبت کرنا۔ کہا جاتا ہے "مَا يَلْنَا الْمَلِكُ فَمَا يَلْنَا" بادشاہ نے ہم پر حملہ کیا ہم نے اس پر حملہ کر دیا۔ مَسَائِلُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ: ترجیح دینا۔

تَمِيْلٌ وَتَمَائِلٌ تَمَائِلًا فِي مَشِيَةِ: ناز و انداز سے چلنا۔ کہا جاتا ہے "بَيْنَ الْقَوْمِ تَمَائِلٌ" یعنی قوم کے درمیان جگمگ و جدال اور فتنے ہیں۔ تَمَائِلُ الْجُلُ عَنِ الْفَرَسِ: جھکننا۔

إِسْتِمَالٌ إِسْمَالَةٌ: مائل ہونا۔ کہا جاتا ہے "مَيْلَهُ فَاسْتَمَالَ" اس نے اسے جھکا دیا۔
جھک گیا۔۔۔۔۔ فَلَانًا وَبِقَلْبِهِ: جھکانا۔ مائل کرنا۔ مہربان بنانا۔۔۔۔۔ مَا فِي الْوَعَاءِ: لینا۔

<p>الظَّمُونُ مَيُونٌ“ اکثر گمان جھوٹے ہوتے ہیں۔ ”وَمَا هُوَ إِلَّا كَذِبٌ وَمَيِّنٌ“ یہ صرف جھوٹ ہے۔</p>	<p>”الذَّهْرُ مَيْلٌ“ زمانہ گردشوں والا ہے۔ الْإِمَالَةُ: مَص... فِي الْفِرَاءَةِ: فَتْحٌ كَوَسْرِهِ كِي جَانِبٍ أَوْ الرَّافِ كَوِيَا كِي جَانِبٍ جَهَكَ نَا۔</p>	<p>اِسْتِمَالُ الطَّعَامِ وَنَحْوُهُ: دُونُوں كَفِيَا ذِرَاعٍ سَ نَاطِنَا۔ الْمَيْلُ: سِرْمَكِي سَلَاكِي (مَوْلِدَةٌ) زَحْمٌ نَاطِنٌ كَا آلُ۔ الْمَيْلُ: نَشَانُ رَاهِ جُو سَافِرٍ كَلْتَمَ بِنَا وَيَا جَا تَ تَا كَه وَهُ سَافِتٌ مَعْلُومٌ كَرَسَكُ۔</p>
<p>الْمَيِّنَا وَالْمَيِّنَاءُ: بِنْدَرِ گَاهِ۔ مَيِّنٌ مَوَانٍ وَمَوَانِي الْمَيِّنَاءُ: آ مَيِّنَةٌ۔ مُضْمَائِنُ الْمَوْدِ: جھوٹی دوستی کرنے والا۔</p>	<p>وغيره۔ زین پر ایک جانب جھکا ہوا۔ بزدل۔ مَوْنُثٌ مَيَّلَاةٌ۔</p>	<p>وہ مسافت معلوم کر سکے۔ مسافت جس کی کوئی حد مقرر نہیں۔ لوگوں نے کہا ہے کہ نگاہ جھپٹنے تک کی مسافت</p>
<p>مَاءٌ يَمِينُهُ مَيْلُهَا وَمَيْلَةُ السَّيْفِ وَغَيْرُهُ بِمَاءِ السَّهْبِ: تَلَوَارِ پَر سُونِ كَ پَانِي كَالْمَلِجِ كَرْنَا... فَلَا تَا: پَانِي پَلَا نَا۔ مَاصَاتِ الْمَيْلُ: بَہت پَانِي وَالَا ہونا۔ مَاءٌ يَمِينُهُ مَيْلُهُ وَ مَاصَاةٌ وَمَيْلُهَا الرَّكِيَّةُ: كَنُوئِمِں كَ پَانِي كُو زِيَا دَہ كَرْنَا۔</p>	<p>الْمَيَّلَاءُ. الْأَمِيلُ: كَا مَوْنُثٌ۔ رِيْتٌ كَا ثِيْلُهُ۔ شَجَرَةٌ مَيَّلَاءٌ: بَہت مَيِّنِيُوں وَالَا دَرِخْتِ۔ الْمَائِلُ: فَا۔ مَيْلٌ وَمَالَةٌ مَوْنُثٌ مَائِلَةٌ جَ مَائِلَاتٌ وَمَوَانِلُ۔</p>	<p>عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ: چار ہزار ہاتھ کی مسافت۔ وَالْمَيْلُ الْهَاشِمِيُّ: اِيك بَزَارِ بَاعٍ (أَوْ بَاعٌ دُونُوں بَاتْحُوں كَ پَھِيْلَاةٌ كِي لِبَاكِي) جَ أَمِيَالٌ وَأَمِيَالٌ وَمَيْوَلٌ۔</p>
<p>مَنْ يَمِينُ مَيْنَا: جھوٹ بولنا۔ صَفْتٌ مَسَائِنُ وَمَيْسَانٌ وَمَيْسُونٌ. مَسَانُ الْأَرْضِ: زَمِيْنُ كُو زِرَاعَتِ كَ لَمَے جُو تَا۔</p>	<p>الْمَيْتَالُ: بَہت جھکنے والا۔ مَوْنُثٌ مَيَّلَاةٌ۔ مَنْ يَمِينُ مَيْنَا: جھوٹ بولنا۔ صَفْتٌ مَسَائِنُ وَمَيْسَانٌ وَمَيْسُونٌ. مَسَانُ الْأَرْضِ: زَمِيْنُ كُو زِرَاعَتِ كَ لَمَے جُو تَا۔</p>	<p>عَيْلٌ كَحُوْثُكُ: وَہ زَاوِيَه جُو اسْتَوَاہ آ سَمَانِي اُو رَ اس خَطِ كَ دَر مِيَا نِ وَا قَعِ هَے جُو زَمِيْنِ اُو ر سَتَارِے كَ دَر مِيَا نِ يَلْتَقِ كَا ذَرِيَعِ هَے۔</p>
<p>الْمَاصَاةُ وَالْمَيْنَةُ: كَنُوئِمِں كَ پَانِي كِي كَثْرَتِ۔ الْأَمِيَةُ: اِسْمُ تَفْضِيْلٍ۔ كَہَا جَا تَا هَے ”الْمَيْسَرُ أَمِيَةٌ مَيَّمَا كَانَتْ“ كَنُوَا نِ بَ نِسْبَتِ پَہِيْلِ كَ بَہت پَانِي وَالَا ہَے۔</p>	<p>تَمَسَائِنُ الْقَوْمِ: اِيك كَا دُوسَرِے پَر جھوٹ بولنا۔ الْمَنَانُ: بَلِ كَا پَھِلِ۔</p>	<p>ذَابِرَةُ الْمَيْلِ: آ سَمَانِي كَرِہ كَا بَزَا دَاثِرِہ جُو كَرِہ دُو قَطْبِ كَ سَا تَھِ گَزَرْتَا هَے۔ (الْعَنَاصِرُ الْكِيْمِيَاوِيَّةُ) (كِيْمِيَاكِي عَنَاصِرُ)</p>
<p>مَيِّ وَمَيْتَةٌ وَمَيِّتَا: عَمُورَتُوں كَ نَامِ۔</p>	<p>الْمَيِّنُ: جھوٹ۔ جَ مَيُّوْنٌ كَہتے ہیں ”اَكْثَرُ</p>	<p>السَّيْلَةِ: وَقْتِ۔ جَ مَيْلٌ اُو ر كَہَا جَا تَا هَے</p>



ن: النُّونُ: بنیادی حروف میں سے پچیسواں حرف ہے۔ حروف زلیقیہ سے ہے۔

ن: حرفِ نون پانچ قسموں پر ہے۔

(۱) نون تاکید۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ خفیفہ۔ اقلیلہ اور یہ فعل کے ساتھ مختص ہے جیسے "لَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاعِرِينَ" و "لَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا" ماضی کی تاکید اس سے بالکل نہیں آتی اور امر کی تاکید جائز ہے اور فعل مضارع کی تاکید واجب ہے جبکہ جواب قسم ہو اور لام قسم سے کسی اجنبی کا فاصلہ نہ ہو اور فعل مثبت مستقبل ہو جیسے "تَاللَّهِ لَا يَكِيدُنَّ أَضَانَكُمْ" اور جبکہ جواب قسم ہو اور یہ شرطیں نہ پائی جاتی ہوں تو تاکید ممنوع ہے اور ان کے علاوہ میں تاکید و عدم تاکید دونوں جائز ہیں مگر طلب میں تاکید زیادہ ہوتی ہے۔

(۲) نون تنوین اور یہ نون ساکنہ زائدہ اسم کے آخر میں آتا ہے جو صرف پڑھا جاتا ہے لکھا نہیں جاتا جیسے کتاب۔

(۳) نون تانیث اور یہ یا تو خفیفہ و مفتوحہ ہوتا ہے جو فعل کے ساتھ لائق ہوتا ہے جیسے "ضَرَبْنِ وَيَضْرِبُنِ وَأَضْرِبُنِ" اور یہ ضمیر ہوتا ہے اور یا مشدودہ و مفتوحہ ہوتا ہے جو جمع مؤنث پر دلالت کرنے کے لئے ضمیروں کے ساتھ متصل ہوتا ہے جیسے "غُلَامُكُنَّ" و "بَنَاتُكُنَّ" اور یہ حرف ہے۔

(۴) نون وقایہ اور یہ پائے متکلم سے پہلے آتا ہے جیسے ضَرْبَنِي وَابْنِي۔

(۵) نون زائدہ۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو فعل مضارع کے ساتھ لائق ہوتا ہے جبکہ ضمیر تثنیہ کے ساتھ متصل ہو جیسے "يَضْرِبَانِ وَيَضْرِبَانِ" یا ضمیر مؤنث حاضر کے ساتھ متصل ہو جیسے "تَضْرِبِينَ" یا جمع مذکر کے ساتھ جیسے: "يَضْرِبُونُ" و "تَضْرِبُونُ" ان ساری صورتوں میں سوائے ثنی کے مفتوح ہوتا ہے اور ثنی میں کسور۔ دوسری قسم وہ ہے جو اسم ثنی کے ساتھ لائق ہوتا ہے اور کسور ہوتا جیسے "الزَّيْدَانِ" اور جمع مذکر کے ساتھ اور مفتوح ہوتا ہے جیسے "الزَّيْدُونُ"۔

نَا: ضمیر جمع متکلم ہے اور رفع نصب جر میں مشترک ہے جیسے "رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا" نَاث (ف و ض) نَاتَا وَنَيْتَا: گریہ و زاری کرنا۔ الرُّجُلُ: حد کرنا۔

النَّات: ثمر۔ نَاث (ف) نَاتَا وَمَنَاتَا غَنَةً: بعید ہونا۔ تاخیر کرنا۔ الرُّجُلُ: کوشش کرنا۔ أَنَاتُهُ إِنَاتًا: دُور کرنا۔ کہا جاتا ہے "سَعَى سَعِيًا نَاتًا وَمِنَاتًا" وہ سُست چال چلا۔ سَمِيرٌ مِينَاتٌ: سُست چال۔

نَاج (ف) نُوُوجَا فِي الْأَرْضِ: جانا۔ الْأَمْرُ: کام کو موخر کرنا۔ نَنْجِيحًا: إِلَى اللَّهِ فِي الدُّعَاءِ: گڑگڑانا۔ فَاجَتْ الرِّيحُ: ہوا کا تیز ہونا۔ الرِّيحُ الْمَوْضِعُ: ہوا کا تیز گزرنے۔

فَاج (ف و ض) نَاجَا وَنُوجَا النُّورُ: بیل کا

آواز نکالنا۔

نَيْج (س) نَاجَا: آہستہ کھانا۔

نَيْجِ القَوْمِ: تیز ہوا لگانا۔

النَّايَجَةُ: تیز ہوا۔ ج نَائِيحَاتُ

النَّاجُ: بہت آواز نکالنے والا۔ تیز رُجُلٌ

نَاجٌ: بلند آواز والا امرد۔

النَّيْجِ: مَسْ۔ کہا جاتا ہے "لِلرَّيْحِ

نَيْجٌ" ہوا کے لئے تیز سرسراہٹ ہے۔

رَيْحٌ. نُوُوجٌ: تیز چلنے والی ہوا۔ ج نَوَائِجِ

الْمَنْوُوجِ: مَفْع۔ حَدِيدٌ مَنْوُوجٌ: پیچیدہ

بات۔

نَآذَهُ (ف) نَآذَا: حد کرنا۔ نَآذَتُهُ

الدَّاهِيَةُ: مصیبت نازل ہونا۔ نَآذَتِ

الْأَرْضُ: زمین میں سلین ہونا۔

النَّادُ: بروزن عظام و النَّادِي: بروزن

نصارئ و النُّوُودُ: مصیبت۔

النَّيْدِلُ: مصیبت۔

نَسَارَت (ف) نَسَارَا: نَسِيرَةٌ فِي

النَّاسِ: لوگوں میں بیجان ہونا۔

النُّوُورُ: کاجل۔

نَاش (ف) نَاشَا تَنَاشَ الشَّيْ: سخت پکڑنا

..... الْأَمْرُ: موخر کرنا..... الشَّيْ: دور کرنا

..... وَاللَّهُ: زندہ کرنا اور بلند کرنا.....

الرُّجُلُ مِنْ مَكَانِهِ: اُٹھنا۔

تَنَاشَ: پیچھے ہونا اور دُور ہونا..... الشَّيْ: الشَّيْ: دور سے لینا۔

إِنشَاشٌ: پیچھے ہونا اور دُور ہونا..... الشَّيْ: فَلَانَا: جلدی میں ڈالنا..... بِغَنَمِهِ: بکریوں

انہی فلائا عنہ: دور کرنا۔	انہی فلائا عنہ: دور کرنا۔
تقاءى قناینا وانسای ابتناء: دور ہونا۔	اللہ: برابر کرنا۔
النسای والنوی والنبی والنوی: چوپچہ خیمہ کے ارد گرد۔ ج آنا و آنا و نئی و نئی۔	النوی: قوی غالب۔
النای: دور۔	النیش: دور۔ کہا جاتا ہے "فَعَلَهُ نَيْشًا" اس نے اس کو اخیر میں کر دیا۔ "وَجَاءَ نَيْشًا" وہ دیر سے آیا۔ "وَأَتَيْعَهُ نَيْشًا" بولا جاتا ہے جبکہ پیچھے رہ جائے اور پھر ساتھ چھوٹ جانے کے خوف سے جلدی سے پیچھا کرے۔
تَبَّ تَبَّيْنَا التَّبَا: پورے دار ہونا۔	النَّبِطَل: بُرَى مصیبت۔ چالاک مرد۔
تَبَّيْنَا التَّبَا: پانی کا بہہ پڑنا۔	نَاف (ف) نَافَا فِي الْأَمْرِ: کوشش کرنا۔
التَّبَا: اسم مرۃ۔ بدبو۔	نَيْف (س) نَافَا وَنَافَا مِنْ الشَّرَابِ: آسوہ ہونا۔ الرُّجُلُ: نفرت کرنا۔ الشُّي: کھانا۔
الانْبُوبُ: بانس یا نرکل وغیرہ کا پورا۔ ج انابیب: ہر گول جوف دار کیلئے بھی استعارہ کے طور پر بولا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے "شَرِبَ مِنَ الْبُوبِ الْكُوزِ" اس نے کوزہ کی ٹوٹی سے پیا۔	نَسَّال (ف) نَآلًا وَنَيْلًا وَنَآلَانَا الْفَرَسُ: گھوڑے کا جھوٹے ہوئے چلنا۔ صفت نَوُوْلٌ۔
انْبُوبُ الْمَاءِ: تالی۔ انْبُوبُ الْكُوزِ: کوزہ کی ٹوٹی۔ الانْبُوبُ مِنَ الشَّجَرِ: درختوں کی قطار۔ انابیب الرِّقَّةِ: پھیپھڑے سے سانس لینے کی تالیاں۔	الرُّجُلُ: سر اٹھا کر بلاتے ہوئے چلنا۔ فلائا: حد کرنا۔
النَّبَا: پانی کا بہہ پڑنا۔	نَام (ف ض) نَيْمًا: آہستہ آہستہ رونا۔
نَبَا (ف) نَبَا وَنَبُوْنَا الشُّي: بلند ہونا۔ دور ہونا۔ کہا جاتا ہے "نَبَا سَمْعِي عَنْ كَذَا" میرے کان نے فلاں بات سے نفرت کی۔ عُلَى الْقَوْمِ: ظاہر ہونا۔ برآمد ہونا۔	نَامَتِ الْقَمُوسُ وَالْأَسَدُ وَالطَّيْلُ: کمان شیر۔ ہرن کا آواز کرنا۔
نَبَا (ف ض) نَبَا سَمْعِي عَنْ كَذَا: میرے کان نے فلاں بات سے نفرت کی۔ عُلَى الْقَوْمِ: ظاہر ہونا۔ برآمد ہونا۔	النَامَةُ: نام: کا اسم مرۃ۔ لغز۔ آواز۔ کہا جاتا ہے "انسکت اللہ نَامَتُهُ" اللہ اس کی آواز کو خاموش کر دے یعنی مار دے۔
نَبَا (ف ض) نَبَا سَمْعِي عَنْ كَذَا: میرے کان نے فلاں بات سے نفرت کی۔ عُلَى الْقَوْمِ: ظاہر ہونا۔ برآمد ہونا۔	نَائِبُ نَبِ نَسَاءً وَتَبِ نَبِ عَنِ الْأَمْرِ: سُت ہونا۔ عاجز ہونا۔ قاصر ہونا۔ صفت نَبِ نَاوِ نَسَاءً وَنُؤُنُو: یعنی عاجز۔ بزدل۔ نَانَا فَلَانَا: اچھی غذا دینا۔ ارادہ سے باز رکھنا۔
نَبَا (ف ض) نَبَا سَمْعِي عَنْ كَذَا: میرے کان نے فلاں بات سے نفرت کی۔ عُلَى الْقَوْمِ: ظاہر ہونا۔ برآمد ہونا۔	نَائِي يَنْبِي نَائِيًا فَلَانَا وَنَائِي عَنِ فَلَانٍ: دور ہونا۔ صفت نَائِيًا مَوْثِ نَائِيَةً۔
نَبَا (ف ض) نَبَا سَمْعِي عَنْ كَذَا: میرے کان نے فلاں بات سے نفرت کی۔ عُلَى الْقَوْمِ: ظاہر ہونا۔ برآمد ہونا۔	نَائِي وَنَائِي وَنَائِي وَنَائِي: چوپچہ خیمہ کے ارد گرد چوکھودتا۔
نَبَا (ف ض) نَبَا سَمْعِي عَنْ كَذَا: میرے کان نے فلاں بات سے نفرت کی۔ عُلَى الْقَوْمِ: ظاہر ہونا۔ برآمد ہونا۔	نَائِي مَنَاءَةَ الرَّجُلِ: دور کرنا۔ الشُّرْعُنُ: فلان: مدامت کرنا۔ ہٹانا۔
نَبَا (ف ض) نَبَا سَمْعِي عَنْ كَذَا: میرے کان نے فلاں بات سے نفرت کی۔ عُلَى الْقَوْمِ: ظاہر ہونا۔ برآمد ہونا۔	

انہی فلائا عنہ: دور کرنا۔	انہی فلائا عنہ: دور کرنا۔
تقاءى قناینا وانسای ابتناء: دور ہونا۔	اللہ: برابر کرنا۔
النسای والنوی والنبی والنوی: چوپچہ خیمہ کے ارد گرد۔ ج آنا و آنا و نئی و نئی۔	النوی: قوی غالب۔
النای: دور۔	النیش: دور۔ کہا جاتا ہے "فَعَلَهُ نَيْشًا" اس نے اس کو اخیر میں کر دیا۔ "وَجَاءَ نَيْشًا" وہ دیر سے آیا۔ "وَأَتَيْعَهُ نَيْشًا" بولا جاتا ہے جبکہ پیچھے رہ جائے اور پھر ساتھ چھوٹ جانے کے خوف سے جلدی سے پیچھا کرے۔
تَبَّ تَبَّيْنَا التَّبَا: پورے دار ہونا۔	النَّبِطَل: بُرَى مصیبت۔ چالاک مرد۔
تَبَّيْنَا التَّبَا: پانی کا بہہ پڑنا۔	نَاف (ف) نَافَا فِي الْأَمْرِ: کوشش کرنا۔
التَّبَا: اسم مرۃ۔ بدبو۔	نَيْف (س) نَافَا وَنَافَا مِنْ الشَّرَابِ: آسوہ ہونا۔ الرُّجُلُ: نفرت کرنا۔ الشُّي: کھانا۔
الانْبُوبُ: بانس یا نرکل وغیرہ کا پورا۔ ج انابیب: ہر گول جوف دار کیلئے بھی استعارہ کے طور پر بولا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے "شَرِبَ مِنَ الْبُوبِ الْكُوزِ" اس نے کوزہ کی ٹوٹی سے پیا۔	نَسَّال (ف) نَآلًا وَنَيْلًا وَنَآلَانَا الْفَرَسُ: گھوڑے کا جھوٹے ہوئے چلنا۔ صفت نَوُوْلٌ۔
انْبُوبُ الْمَاءِ: تالی۔ انْبُوبُ الْكُوزِ: کوزہ کی ٹوٹی۔ الانْبُوبُ مِنَ الشَّجَرِ: درختوں کی قطار۔ انابیب الرِّقَّةِ: پھیپھڑے سے سانس لینے کی تالیاں۔	الرُّجُلُ: سر اٹھا کر بلاتے ہوئے چلنا۔ فلائا: حد کرنا۔
النَّبَا: پانی کا بہہ پڑنا۔	نَام (ف ض) نَيْمًا: آہستہ آہستہ رونا۔
نَبَا (ف) نَبَا وَنَبُوْنَا الشُّي: بلند ہونا۔ دور ہونا۔ کہا جاتا ہے "نَبَا سَمْعِي عَنْ كَذَا" میرے کان نے فلاں بات سے نفرت کی۔ عُلَى الْقَوْمِ: ظاہر ہونا۔ برآمد ہونا۔	نَامَتِ الْقَمُوسُ وَالْأَسَدُ وَالطَّيْلُ: کمان شیر۔ ہرن کا آواز کرنا۔
نَبَا (ف ض) نَبَا سَمْعِي عَنْ كَذَا: میرے کان نے فلاں بات سے نفرت کی۔ عُلَى الْقَوْمِ: ظاہر ہونا۔ برآمد ہونا۔	النَامَةُ: نام: کا اسم مرۃ۔ لغز۔ آواز۔ کہا جاتا ہے "انسکت اللہ نَامَتُهُ" اللہ اس کی آواز کو خاموش کر دے یعنی مار دے۔
نَبَا (ف ض) نَبَا سَمْعِي عَنْ كَذَا: میرے کان نے فلاں بات سے نفرت کی۔ عُلَى الْقَوْمِ: ظاہر ہونا۔ برآمد ہونا۔	نَائِبُ نَبِ نَسَاءً وَتَبِ نَبِ عَنِ الْأَمْرِ: سُت ہونا۔ عاجز ہونا۔ قاصر ہونا۔ صفت نَبِ نَاوِ نَسَاءً وَنُؤُنُو: یعنی عاجز۔ بزدل۔ نَانَا فَلَانَا: اچھی غذا دینا۔ ارادہ سے باز رکھنا۔
نَبَا (ف ض) نَبَا سَمْعِي عَنْ كَذَا: میرے کان نے فلاں بات سے نفرت کی۔ عُلَى الْقَوْمِ: ظاہر ہونا۔ برآمد ہونا۔	نَائِي يَنْبِي نَائِيًا فَلَانَا وَنَائِي عَنِ فَلَانٍ: دور ہونا۔ صفت نَائِيًا مَوْثِ نَائِيَةً۔
نَبَا (ف ض) نَبَا سَمْعِي عَنْ كَذَا: میرے کان نے فلاں بات سے نفرت کی۔ عُلَى الْقَوْمِ: ظاہر ہونا۔ برآمد ہونا۔	نَائِي وَنَائِي وَنَائِي وَنَائِي: چوپچہ خیمہ کے ارد گرد چوکھودتا۔
نَبَا (ف ض) نَبَا سَمْعِي عَنْ كَذَا: میرے کان نے فلاں بات سے نفرت کی۔ عُلَى الْقَوْمِ: ظاہر ہونا۔ برآمد ہونا۔	نَائِي مَنَاءَةَ الرَّجُلِ: دور کرنا۔ الشُّرْعُنُ: فلان: مدامت کرنا۔ ہٹانا۔
نَبَا (ف ض) نَبَا سَمْعِي عَنْ كَذَا: میرے کان نے فلاں بات سے نفرت کی۔ عُلَى الْقَوْمِ: ظاہر ہونا۔ برآمد ہونا۔	

النَّبَاتِيَّةُ: ما بر علم نبات۔

النَّبَات: نئی آگئی ہوئی سبزی۔

النَّبَاتِيَّةُ: النَّبَاتِ كَامَوْث۔ اولاد۔ چوپاؤں

کے بیج۔ کہا جاتا ہے "إِنَّ نَبِيَّ فُلَانٍ لَّنَابِتُهُ

شَرٌّ" فلاں کی اولاد شرفساد کے باعث

ہیں۔ نَسْوَابِتِ: النَّوَابِتِ: نا تجربہ کار

نوجوان۔

النَّبُوت: درخت کی نشی اور ڈنڈے پر بھی

اطلاق ہوتا ہے۔ نَج نَبَابِتِ:

النَّبَاتِ: مصل۔ درخت۔ پودا۔ درخت خرما

کی چھائی ہوئی شاخیں۔ نَج نَبَابِتِ:

النَّبَاتِ: اگنے کی جگہ۔

الْمِنَابِتِ: بہت روئیدگی والی زمین۔

النَّبُوت: خشخاش کا پودا۔ خروب کا

درخت۔ نَج نَبَابِتِ: واحد نَبْوَتَةٌ:

نَبْت (ن) نَبَاتُ النَّبْرِ: کنواں کھود کر مٹی نکالنا

..... النَّرَابِ: کنوئیں وغیرہ سے مٹی نکالنا

..... عَنِ النَّبْرِ: عین الیوم: عین کی یا معاملہ کی

تفتیش کرنا فُلَانٌ: غضبناک ہونا اور کہا

جاتا ہے "فُلَانٌ يَنْبُتُ عَنِ غُيُوبِ

النَّاسِ" فلاں لوگوں کے عیوب کو ظاہر کرتا

ہے۔

إِنْبَتِ النَّرَابِ: کنوئیں وغیرہ سے مٹی نکالنا

..... الشُّي: لینا۔

نَبَاتِ القَوْمِ: باہم بحث کرنا۔ "لَا يَزَالُونَ

يَنْبَاتُونَ عَنِ الْأَسْرَارِ وَيَنْبَاتُونَ عَنِ

الْأَخْبَارِ" وہ لوگ اسرار و اخبار کے متعلق

ہمیشہ بحث کرتے رہے۔

إِسْتَبْتِ عَنِ النَّبْرِ: تحقیق میں کوشش کرنا۔

النَّبْتِ: نشان۔ نَج أَنبَاتِ:

النَّبَاتِ: شریہ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ حَيْثُ

يَبْتُ"

النَّبَاتِ: کنوئیں وغیرہ سے نکالی ہوئی مٹی۔

بھید۔ نَج نَبَاتِ کہا جاتا ہے "ظَهَرَتْ

نَبَاتُهُمْ وَلَمْ تَخْفَ حَبَابُهُمْ" ان کے بھید

ظاہر ہو گئے اور ان کی خباثیں پوشیدہ نہیں

رہیں۔ نَبِيْفَةُ النَّبْعِ: ضرورت کے وقت

کے لئے چھپایا ہوا گوشت۔

الْأَبْسُوتَةُ: کوڑی چھپول۔ بچوں کا ایک کھیل

کہ مٹی کے نیچے کسی چیز کو چھپا دیتے ہیں جو

نکال لیتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔

نَبِيْح (ض) نَبِيْحًا: سخت آواز و درشت کلام

ہونا۔ صفت نَبَاحِ:

نَبَجَت (ن) نَبَجًا: القَبْحَةُ: چکور کا باہر

لگانا۔

النَّبِيْح: کلام میں گلدنڈ کرنا۔ بلند ٹیلوں پر

بیٹھنا۔

إِنْبِيْحٌ وَنَبِيْحٌ: العَظْمُ: سوجنا۔

النَّبِيْحَةُ: نیلج نَبَاحِ:

النَّبَاحِ: جھونا۔ كَلْبٌ نَبَاحٌ

وَنَبَاحِيٌّ: جھونکنے والا کتا۔

النَّبَاحِ: نا کارہ آدمی۔ گوز۔ نَبَاحٌ

الْكَلْبِ: کتے کی آواز۔

النَّبَاحَةُ: نَبَاحِ كَامَوْث۔ چوڑا۔ در۔

النَّبَاحَةُ: مصیبت۔

النَّبَاحِ: بلند ٹیلے۔

النَّبَاحِ: دھمکی۔ وعید۔ نَج نَبَاحِ:

المُنْبِيْحِ: جھوننے وعدے کرنے والا۔

النَّبِيْحِ: کالے تھیلے۔

النَّبِيْحِ: آم۔

النَّبِيْحِ: کتے کی آواز۔

نَبِيْح (ض) نَبِيْحًا وَنَبِيْحًا وَنَبِيْحًا

وَنَبِيْحًا وَنَبِيْحًا وَنَبِيْحًا: کتے کا

جھونکنا۔ صفت نَبَاحِ نَبَاحِ وَنَبِيْحِ

وَنَبِيْحِ کہا جاتا ہے "نَبِيْحَةُ الكَلْبِ وَنَبِيْحِ

عَلَيْهِ" اس پر کتا جھونکا۔ نَبَاحِ کتے کی آواز

کے لئے ہے مگر مجازاً ہرن اور بکرے وغیرہ

کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وَنَبِيْحِ

الشَّاعِرُ کہا جاتا ہے "نَبِيْحِي

كَلَابِكُ" تمہاری گالیاں مجھے پہنچیں۔

نَبِيْح (ف) نَبِيْحًا: الْهَذْهُدُ: زیادہ عمر ہونے

کی وجہ سے موٹی آواز والا ہونا۔

نَبِيْحَةُ النَّبِيْحَةِ الكَلْبِ: کتے کا کسی پر

جھونکنا۔

النَّبِيْحَةُ وَالنَّبِيْحَةُ: جھونکنا۔ کہا جاتا ہے

"إِسْتَبْتِ الْأَضْيَافَ كَلْبُهُمْ" مہمانوں نے

ان کے کتوں کو جھونکایا۔ عادت تھی کہ جب

مسافرات کو راستے میں بھٹک جایا کرتا تھا تو

کتے کی طرح آواز نکالتا تاکہ آبادی کے

کتے جھونکنے لگیں اور ان کی آواز سے اس کو

راستہ کا پتہ لگ جائے اور اسی وجہ سے رات

کے آنے والے کو مُسْتَبِيْحِ کہتے تھے۔

النَّبِيْحِ: مصل۔ قوم کا شور اور ان کے کتوں

کی آوازیں اور یہ نَبِيْحِ کی جمع ہے۔

النَّبِيْحِ: تیز جھونکنے والا۔ چھوٹی سفید بیچی

جس کو ہار میں ڈالا کرتے تھے۔ واحد نَبِيْحَةُ:

كَلْبٌ نَبِيْحِيٌّ: بلند آواز سے جھونکنے والا

کتا۔ ظَبِيْبَةُ النَّبِيْحِ: مینا نے والی ہرنی۔

النَّبِيْحِ: جس کو گالی دی جائے۔

نَبِيْح (ض) نَبِيْحًا: النَّبِيْحَةُ: خمیر اٹھانا۔

النَّبِيْحَةُ: خمیر اٹھانا الرَّجُلُ: نرم

زمین میں بھتی کرنا۔

النَّبِيْحِ وَالنَّبِيْحِ: آبلہ۔ چھالا۔

النَّبِيْحَةُ وَالنَّبِيْحَةُ: بردی: ایک قسم کی گھاس

جس سے کشتی کی درز کو بند کرتے تھے۔

گندھک۔

النَّبِيْحَةُ وَالنَّبِيْحَةُ: نکتہ۔

النَّبِيْحَةُ: دور کی زمین۔ تکبر سے بولنے

والا۔ نَج نَبَايِحِ:

النَّبِيْحِ: مردخت اندام۔ مینا لے رنگ والا۔

بہت مٹی۔

الأَرْضُ النَّبِيْحَةُ: بلند زمین۔ نرم زمین۔ نَج

نَبَايِحِ:

النَّبَايِحِ وَالنَّبَايِحِ مِنَ النَّبِيْحِ: اٹھانا

خمیر۔

نَبَدَ (ض) نَبَدًا: الشُّي: پھینک دینا۔

الأَمْرُ: بے کار کر دینا الْعَهْدُ: توڑنا۔ کہا

جاتا ہے "نَبَدَ إِلَى الْعَدُوِّ" اس نے عہد کو

دشمن کی طرف ڈال دیا۔

نَبَدَ وَنَبَدَ النَّبِيْدُ: نبید بنانا الْعَبْدُ: او

النَّبَدُ: نبید بننا۔ وَنَبَدَ الشُّي: ڈال دینا۔

النباة: او پر کونکا ہوا بلند۔

المنبهة: سب بیداری۔ کہا جاتا ہے "هَذَا مَنبَهَةٌ عَلَيَّ كَمَا" یہ فلاں چیز کو بتانے والا ہے۔

رَجُلٌ عَنبُوهُ الْأَسْمُ: مشہور و معروف۔

نَبَا يَنْبُو نَبْوَةً وَيَبُو وَيُبَا وَيُبَا بَصْرَةً: نگاہ کا

دخلا ہونا۔ صفت ناب۔ الشئ: دور

ہونا اور پیچھے ہونا۔ (نَبَا وَنَبْوَةٌ) السَّيْفُ

عَنِ الضَّرْبِيَّةِ: تلوار کا اچھٹ جانا۔ حَسْبُهُ

عَنِ الْفَرَّاشِ: بے چین رہنا۔ السَّهْمُ عَنِ

الْهَدَفِ: تیر کا نشانہ سے خطا کرنا۔ السُّطْبُحُ

عَنِ الشَّيْ: نفرت کرنا۔ عَنِ الشَّيْ: زائل

ہونا۔ بَسَى فَلَانٌ: ظلم کرنا۔ کہا جاتا ہے

"لَيْسَ بَسَى تِلْكَ الْأَرْضُ" یہ زمین مجھے

موافق نہیں آئی۔ الْمَمْكَانُ

بِفُلَانٍ: ناموافق ہونا۔ عَلَيْهِ الْأَشْرَؤُ

الضَّاحِبُ: کھرانہ ہونا۔ صاف نہ ہونا۔

نَبَتْ صُورَةَ فَلَانٍ: بد صورت ہونا۔ یہاں

نک کہ آکھ دیکھنے سے انکار کرے۔

أَنْبَى السَّيْفُ: تلوار کو کند کرنا۔

النَّبْوَةُ: مصل۔ نَبْوَةُ الرُّمَانِ: زمانہ کی سختی

(..... و النباوة) بلند زمین۔

النَّبِيُّ وَالنَّبِيَّةُ: پیغمبر و پیغمبری۔

(دیکھئے مادہ نبا) وَالنَّبِيُّ مِنَ الْأَرْضِ: بلند

زمین۔

النَّبَاةُ: شرافت و ریاست کی طلب۔ پیش

قدمی۔

النَّبِيُّ: بلندی و ارتقا۔

النَّبَابِيُّ: چونکے والی تلوار یا تیر۔ مونا۔ لڑائی

میں پشت پھیرنے والا۔

النَّبَابِيَّةُ النَّابِي: کامزنت۔ کمان۔

نَبَتْ (ض) نَبَيْتًا الْقُدْرُ: ہانڈی کا ابلنا۔

نَبَتْ (ن) نَسَا وَنَبَيْتًا مَبْحُورَةً: غصے سے تھننے

پھلانا۔

نَبَتْ الْخَبِيرُ: بیان کرنا۔

نَبَتْ الرِّجْلُ: صفائی کے بعد گندہ ہونا۔

النَّبَةُ: چھوٹا سا گڑھا جس میں پانی جمع ہو۔

نَسَا (ف) نَسَا وَنُسُوًا. الشئ: بغیر جدائی

کے اپنی جگہ سے ہٹ جانا۔ بلند ہونا۔ پھولنا

..... الْقَرْحَةُ: زخم کا سوجنا۔

النَّدَى: پستان اُبھرنا۔ الْجَارِيَةُ: بالغ ہونا

..... عَلَى الْقَوْمِ: ظاہر ہونا۔

انْتَسَا الشئ: بلند ہونا۔

النَّابِيُّ: فا۔ ہر بلند چیز جیسے مکان وغیرہ۔ اور

اس میں تخفیف ہمزہ بھی جائز ہے تم کہو گے

نابیی جیسے قاری و قاری۔

النَّبْوَةُ: مصل (..... و النباة) ثلث۔

نَبَتْ (ن) نُبُونًا الشئ: بمعنی نَسَا.

نَصَحَ (ض) نَصَحًا الْمَصَاحِضُ مِنَ

الْبَهَائِمِ: بچہ جنے میں خبر گیری کرنا۔ صفت

نَاصِحٌ. بھیمہ: کو مستوجہ اور بچے کو

نَيْصِحَةٌ کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے "نَصَحَهَا

وَلَدًا" اس نے بچہ جو آیا۔ وَنَصَحَ الرَّجُلُ

الْحَمَامِلُ: حاملہ عورت نے مرو کے پاس بچہ

دیا۔ نَصَحَ الشئ مِنَ الشئ: تہیہ لگانا۔

نَصَحَتْ وَنَصَحَتْ نَصَاحًا وَنَصَحَتْ الْبَهِيمَةَ

وَلَدًا: جنا۔ وَنَصَحَ الْوَلَدُ: جنا جانا اور کہا جاتا

ہے "نَصَحَتْ الرِّيحُ السَّحَابَ" بارش

برسا۔ نَصَحَ الْقَوْمُ: بچہ والی مویشی کا مالک

ہونا۔

نَصَحَ: بمعنی نصح تشدید تکثیر کے لئے ہے۔

انْتَصَحَ الْقَوْمُ: حاملہ اونٹنی اور بکریوں کا مالک

ہونا۔ جَنَنَ: والی اونٹنی اور بکریوں کا مالک

ہونا۔ انْتَصَحَتْ الْبَهِيمَةُ: جنے کے قریب

ہونا۔ صفت نَسُوجٌ اور مُنْبِجٌ نہیں کہا

جاتا۔ انْتَصَحَ الشئ مِنَ الشئ: تہیہ لگانا۔

انْتَصَحَتْ الرِّيحُ السَّحَابَ: بارش برسا۔

تَنَصَّحَتْ الْبَهِيمَةُ: ولادت کے وقت بیچ و

تاب کھانا۔ انْتَصَحَتْ وَتَنَصَّحَتْ الْأَبْلُ: بچہ

جنا اور انتصحت الناقة: غیر معروف جگہ میں

بچہ دینا۔ اسْتَنْصَحَ: بچہ جو انا۔ تہیہ لگانا۔

النَّبَاةُ: جانوروں کے بچہ جننے کی حالت اور

کہا جاتا ہے "بِالنَّاقَةِ نَبَاةٌ" یعنی اونٹنی کو حمل

ہے۔

النَّبِيَّةُ: بچہ۔ تہیہ۔ ج نَسَاجٌ اور کہا جاتا

ہے "عَنَسَمَ فَلَانٌ نَسَاجًا" فلاں کی بکریاں

ایک عمر کی ہیں۔

النَّبَاجُ: فا۔ لِلْبَهَائِمِ: جنانے والا۔

النَّبُوحُ: حاملہ چوپایہ۔

الْمَنْبِجُ: بچہ جننے کا وقت۔

الْمَنْبِجَةُ: ذُؤَبِر۔

نَصَحَ (ن ض) نَصَحًا وَنُصُوحًا الْعَرَفِيُّ: پسند

لگانا۔ النَّدَسُ مِنَ الْإِنَاءِ: چکنائی کا برتن

سے رسنا۔ نَصَحَةُ الْخَرُ: پسند لانا۔

انْتَصَحَ الشئ: اُكْهِيْرْنَا۔

النَّصَحُ: مصل۔ پسند۔

النَّبُوحُ: مصل۔ درخت کا گوند۔

زَقِقَ نَصَاحٌ: ٹپکنے والی مٹک۔ الْمَنْبِجُ: جسم

سے پسند نکلنے کی جگہ۔ ج مَنَابِجُ.

الْمَنْبِجَةُ: ذُؤَبِر۔

نَصَحَ (ض) نَصَحًا الشئ: اُكْهِيْرْنَا۔ کہا جاتا

ہے "نَصَحَ الْقَلَاعُ الطَّرْسُ" دانٹ

اُكْهِيْرْنَا والے نے دائرہ اُكْهِيْرْنَا و نَصَحَتْهُ

النَّبِيَّةُ مِنْ بَيْنِ قَوْمِهِ: موت نے اس کو قوم

کے درمیان سے لے لیا۔ نَصَحَ الْبَازِيُّ

اللَّحْمَ: باز کا چنگل سے چھینا مارنا۔ إِلَيْهِ

بَصْرَهُ: دیکھنا۔ النَّوْبُ بِالذَّهَبِ: سونے

سے مینا۔ فَلَانًا: اہانت کرنا۔ نَبَيْتًا

وَنَصَحَ بِالْمَمْكَانِ: اقامت کرنا۔ نَصَحَ عَلَيَّ مَلَّةٌ

كَمَا: ثابت قدم رہنا۔

الْمَنْبِجُ: مویچنا۔ تم کہتے ہو "نَصَحَتْ

الشَّوْكَةُ مِنْ رَجُلِي بِالْمَنْبِجِ" میں نے

کانٹے کو اپنے پیر سے مویچے سے نکال لیا۔

نَصَرَ (ن) نَصَرَ الشئ: بچنے سے بچھپنا۔ اُجْك

لَبْنَا..... الْقَفُوسُ: کمان بھینچنا..... النَّوْبُ

بِالْأَصْبَاعِ او الْأَضْرَاسِ: کپڑے کو پھیرنا

كَلَّرَ كَلَّرَ كَرْنَا..... الْكَلَامُ: درشت

کلامی کرنا..... بِالرَّمْحِ: سخت نیزہ مارنا۔

نَصَرَ (س) نَصَرًا الشئ: فاسد ہونا۔ ضائع

ہونا۔

انْتَصَرَ: بھینچنا۔ کہا جاتا ہے "نَصَرَهُ فَانْتَصَرَ" اس

عورت سے نکاح کرنا۔ اپنا گھر غیر کے گھر کے مقابل بنانا۔	غیبت کرنا۔ ہمت رکھنا۔ انتفع: ہنسی اڑانا..... غیب کرنا۔	نے اسے سختی سے کھینچا وہ کھینچ گیا انتسر فی مشیتہ: چلتے ہوئے ٹیک لگانا۔ التتر: ہنس۔ کام میں کمزوری و سستی۔ سختی۔ کہا جاتا ہے "قابلتہ بنتر" میں نے اس کا سختی سے مقابلہ کیا "واطعنوا التتر" زور سے تیزہ مارو۔
السائق: قا۔ آگ دینے والا چترماق۔ گھوڑا جو اپنے سوار کو تھکا دے۔ ماہ رمضان۔ کہا جاتا ہے "ہنسی ذازة لتناق داربی" اس نے اپنا گھر میرے گھر کے سامنے بنایا۔	تتف (ض) تتفأ وتتف وتتف الشعر او الریش ونحوہ: بال یا پر نوچنا۔ اکھیر تاتف فی القوس: آہستہ کھینچنا۔ انتف الكلا: اکھیرے جانے کے قابل ہونا۔	التسرة: نتر۔ کا اسم مرۃ۔ پار ہو جانے والی ضرب تیزہ۔ ج تفرات۔ التایرة: تانت لوثی ہوئی کمان۔ ج تواتر کہا جاتا ہے کلمتہ منائرة میں نے اس سے بلند آواز سے گفتگو کی۔
تتک (ض) تتکا الشعر: بال اکھیرنا۔ تتل (ض) تتلا الشی: آگے کھینچنا۔ فلانا: ڈانٹنا..... الجراب: توشہ دان جھانڑا یا سب کچھ نکال دینا..... تتلا وتتولا وتلتا: من بین اصحابہ: آگے بڑھ جانا۔	انتف وتتف وتتف الشعر او الریش: بال یا پر اکھیرا جانا۔ التتفة: گھاس وغیرہ جو انگلیوں سے اکھیری جائے اور کہا جاتا ہے "اغطاه تتفة من الطعام وغیرہ" یعنی اس نے اسے تھوڑا سا کھانا دیا اور ایسا ہی "افساده تتفة من علم" اس نے اسے تھوڑا سا علم سکھایا۔ ج تتف۔	تنش (ض) تنشأ الشوكة ونحوها: نکالنا الشعر: بال اکھیرنا..... اللحم ونحوہ: گوشت وغیرہ کو دانت سے لوچنا..... الجزاء الارض: زمین کی بھری کھا جانا..... الرجل لعیالہ: کمائی کرنا..... بالعصا: اٹھی مارنا..... الحججہ برجلہ: پتھر کو پاؤں سے ہٹا دینا اور کہا جاتا ہے "ما تنش من فلان شیا" میں نے فلاں سے کچھ نہیں حاصل کیا اور کچھ نہیں لیا۔
تتاقل النبت: پیچیدہ ہونا اور بعض کا بعض سے بڑا ہونا۔ استتقل من بین اصحابہ: پیش قدمی کرنا۔ للاصر: تیاری کرنا..... القوم علی الماء: پانی پر پہلے پہنچ جانا۔	التتفة: وہ شخص جو علم وغیرہ کو پوری طرح سے حاصل نہ کر سکے۔ التتاف والتتافہ: جو اکھیرتے ہوئے گرے۔	تنش (ض) تنشأ وتنشأ الرجل: پیچھے پیچھے جوبی کرنا۔ انتش النبات: نباتات کا زمین سے ظاہر ہونا (قبل اس کے کہ پھانسی جا سکے کہ کیا ہے) التنش: ابتدائی روئیدگی۔ ناخن کی جڑ کی سفیدی۔
السنل والتتل: شتر مرغ کا انڈا جو پانی بھر کر جاڑے کے زمانہ میں دو دو رو میڈانوں میں زمین کے اندر دیا جاتا ہے تاکہ گرمی کے زمانہ میں جب پانی کی ضرورت پڑے تو کام آئے۔ رجل تنل: مرد پرستہ قد۔ التتيلة: وسیلہ۔	المنتاف والنتیف: اکھیرا ہوا۔ کہا جاتا ہے "غراب تنف الجناح" پر وبال بچا ہوا کوا۔ التتوف: داڑھی کے بال اکھیرنے کا شائق۔ المنتاف: سوچنا۔ چھی۔	المنتاش: موچنا۔ تتایش الدین: قرض کا بقایا۔ تنض (ن) تنوض الجلد: داد وغیرہ جیسے مرض سے جھلکے والا ہونا۔ کہا جاتا ہے انتضت البس السین۔
فتن (ض) وتین (س) تتنا وتفن (ک) فتانة وتونة وتفن: بد بودار ہونا۔ صفت تین وتین وتین وتین: اور تین کی مؤنث تننی جیسے زمین کی زمنی۔ فتن الشی: بد بودار کرنا۔ التیتون: ایک بد بودار درخت۔	تتنق (ن ض) تتنقا الجراب: توشہ دان کو جھانڑنا..... الجلد: کھال اتارنا..... الشی: بھانڑنا۔ ہلانا۔ بلند کرنا۔ پھیلانا۔ تتقت المرأة او النافقة: بہت بچوں والی ہونا۔ صفت ناسق ومنتساق عوام التتقی والتتاق کو قے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں اور اس سے افعال بناتے ہیں۔ تتنق (ن ض) تتوقا: مونا ہونا۔ تتقت (ض) تتنقا وتتنوقا الذابئة ذاکبھا وبواکبھا: چوپایہ کا اپنے سوار کو تھکا دینا۔ انتسق: توشہ دان جھانڑنا۔ بہت بچوں والی	تنض (ن ض) تنوعا الدم من الجرح او السماء من العین: خون کا زخم سے یا پانی کا چشمہ سے تھوڑا تھوڑا ٹکنا۔ صفت نابع انتع الرجل: سخت پیستہ آنا..... القی: بہت تھے ہونا۔ تنغ (ن ض) تنغا الرجل: عیب لگانا۔

أَنْسَى إِنْتَاءً: پیچھے ہٹنا..... ء: صورت و سیرت میں مشابہ ہونا۔

تَنْسَى عَلَيْهِ: کسی پر چڑھ بیٹھنا۔

إِسْتَسْنَى اسْتِسْنَاءَ الدَّمْلِ: پھوڑے کا پکنا اور پھوٹنے کا وقت قریب ہونا۔

نَسَّ (ن ض) نَسَا الْخَبْرَ: پھیلانا.....

الْمُجْرَحُ: زخم پر تیل لگانا۔

نَسَّ (ض) نَسَا وَنَيْسَا الزُّفَى: منگ کا ٹپکانا..... السَّرْبُلُ: موٹاپے کی وجہ سے پسینہ والا ہونا..... الْعِظْمُ: ہڈی سے گودا بہنا۔

تَنَسَّ الْقَوْمُ الْأَخْبَارَ: ایک دوسرے کو خبر بتلانا۔

النَّشُ: مصل۔ نَمَنَّاكَ دِوَار۔

النِّفَاطُ: زخم پر لگانے کا تیل۔

النَّبِيضَةُ: منگ سے ٹکا ہوا۔

النَّثَاتُ وَالْجِنْتُ: بھیدیا بات کو بہت پھیلانے والا۔

النَّثَاتُ: قیامت کرنے والے۔ واحِدَاتٌ۔

الْمِثْقَةُ: اُون کا ٹکڑا جس سے زخم پر تیل لگائیں۔ ج مَنَّاكَ وَمِثْقَاتُ۔

نَبَيْتٌ (س) نَبَسَا اللَّحْمُ: گوشت کا بدبودار ہونا۔

نَتَجَ (ض) نَتَجَا بَطْنَهُ بِالْبَسِيطِينَ: پیٹ پھاڑنا۔

مَنْهَى بَطْنِهِ: آنتوں کو خالی کر دینا۔

إِسْتَسَجَّ أَحَدُ الْعَدْلَيْنِ: ڈھیلا پڑ جانا۔

الْبَيْضُ: بزدل۔ بے برکت۔

الْمِنْجَعَةُ: در۔

نَسَدَ (س) نَسَدَا السَّرْبُلُ: بٹھیرنا.....

الْكُمَاةُ: سانپ کی چھتری کا اگنا۔

نَشَرَ (ن ض) نَشَرَا وَنَشَرَا الشَّيْءَ: بکھیرنا۔ نثر میں گھنٹو کرنا..... الْمِزْرَعُ مَنَعُ: زرہ کو اتار دینا اور کہا جاتا ہے "نَشَرَتِ الْمَرْأَةُ بَطْنَهَا" یعنی اس کے پیچے بہت ہوئے

"وَاحِدٌ فَلَانَ دِرْعًا فَتَشَرَّهَا عَلَيَّ نَفْسِي" فلاں نے زرہ لی اور اپنے اوپر ڈال لی۔

نَشَرَتْ (ض) نَشَرَا الدَّابَّةَ: چھینکنا اور کہا گیا ہے کہ نثر جانوروں کے لئے ہے جیسے

عُطَّاسٌ: آدمیوں کے لئے۔

أَنْشَرَ: ناک جھاڑنا..... ء: ناک کے بل گرانے۔

نَشَرَ الشَّيْءَ: بکھیرنا۔

تَشَشَرُوا وَتَنَازَرُوا الشَّيْءَ: بکھیرنا۔ کہا جاتا ہے "تَنَازَرُ الْقَوْمُ" قوم کے لوگ بیمار ہوئے اور مرے۔

إِنْشَرَ وَإِنْشَرَ: ناک میں پانی ڈال کر جھاڑنا۔

النَّشْرُ: مصل۔ ضد نَقَمَ۔

النَّشْرَةُ: نثر کا اسم مرہ۔ کلام نثر کا ایک ٹکڑا۔

نَشَرَ اور اس کا ارد گرد۔ چھینکنا۔ کشادہ زرہ۔ دونوں طرف کی مونچھوں کے درمیان کا گڑھا۔

النَّشْرُ وَالنَّيْشْرَانُ: بہت بولنے والا۔

بھیدوں کا بہت ظاہر کرنے والا۔

رَجُلٌ نَشُورٌ أَوْ إِسْرَاءُ نَفُورَةٌ: بہت صاحب اولاد مرد یا عورت۔

النَّيْشِرُ: بکھیرنا۔ کلام نثر۔ کہا جاتا ہے "سَمَّانٌ لَفْظُهُ نَيْشِرُ الْمَرْءِ وَالْمَرْءُ النَّيْشِرُ" گویا اس کے الفاظ بکھیرے ہوئے موتی ہیں۔

النَّشَارَةُ وَالنَّشَارُ وَالنَّشْرُ: بکھری ہوئی چیزیں۔

السِّيَارُ: مصل۔ شادی کے موقع پر جو بکھیرا جائے۔

النَّشَارُ: فاش۔ نثر بولنے والا یا لکھنے والا۔ نَخْلَةٌ نَائِبَةٌ: بچی کھجوریں گرانے والا درخت۔

الْمُنْشَرُ: مفتح۔ بیچ دینا کارہ آدی۔

الْمِنْشَارُ: بچی کھجوریں گرانے والا درخت۔

الْمُنْشُورُ: مفتح۔ مِنَ الْكَلَامِ: ضد منظوم والمنشور: ایک تیز خوشبودار پھول دار پودہ۔

واحد منشورة۔

نَطَطَهُ (ن) نَطَطَا..... فَلَانَا: بوجھل کرنا۔

الْكُمَاةُ: سانپ کی چھتری کا زمین سے نکلنا (..... نَطَطَا وَنَطَطَا) ساکن ہونا۔ قرار پانا۔

نَطَطَةُ: آرام دینا۔

أَنْعَمَ: بہت تے کرنا..... الْقَيْ أَوْ الدَّمُ: تے یا خون نکلنا۔

نَقَلَ (ن) نَقَلَا الْفَرَسَ وَكُلُّ ذِي حَافِيٍّ: لید کرنا۔

نَقَلَ (ن ض) وَأَنْشَلَ الْبُزَّ: کنوئیں سے مٹی نکالنا..... الْحِرَابُ: توشہ دان خالی کرنا.....

الْحِجَابَةُ: ترکش سے تیروں کو نکالنا اور بکھیر دینا۔ نَقَلَ الْمِزْرَعُ عَنهُ: زرہ کو اتار چھینکنا.....

اللَّحْمُ فِي الْقَدْرِ: گوشت کو ہانڈی میں نکلنے نکلنے کر کے ڈالنا..... عَلَيَّ فَلَانَ دِرْعًا: زرہ پہنانا۔ اور کہا جاتا ہے "نَشَلْتُ حَفْرَةَ" یعنی اس کی قبر کھودی گئی۔

أَنْشَلَ الْبُزَّ: کنوئیں سے مٹی نکالنا۔

تَنَاقَلُ الْقَوْمُ إِلَيْهِ: اکٹھے ٹوٹ پڑنا۔

اسْتَنْتَلَ الْكِبَانَةَ: ترکش سے تیروں کو نکال کر بکھیرنا۔

النَّشَلُ: کھودا ہوا۔ کہا جاتا ہے "بَشْرُكَ نَقَلٌ" تمہارا کنواں کھدا ہوا ہے۔

النَّشَلَةُ نَقَلٌ: کا اسم مرہ۔ دونوں مونچھوں کے درمیان کا گڑھا۔ کشادہ زرہ۔

النَّبِيضُ: لید۔

النَّشَالَةُ وَالنَّبِيضَةُ: کنوئیں سے نکالی ہوئی مٹی۔

بَقِيَّةُ النَّبِيضَةِ: موٹا گوشت۔

الْمِنْشَلَةُ: زنبیل۔

نَقَمَ (ض) نَقَمْنَا وَانْتَقَمَ: بخش بکنا۔

نَقَسَا يَنْشُرُونَ نَفَا الْحَدِيثِ: بیان کرنا۔ پھیلانا..... الشَّيْءُ: حترق کرنا..... فَلَانَا: قیامت کرنا..... عَلَيْهِ قَوْلًا: کسی کی جانب سے خبر دینا۔

تَنَسَّطَى الْقَوْمُ الْحَدِيثَ: آپس میں ایک دوسرے سے کہنا..... الشَّيْءُ: ایک دوسرے کو یاد دلانا۔

النَّائِي: فاش۔ قیامت کرنے والا۔

النَّفُورَةُ: لوگوں کی عیب جوئی۔

النَّفَا: کسی کے متعلق اچھی یا بری خبر۔

نَشَى يَنْشِي نَفَا الْخَبْرَ: بیان کرنا یا پھیلانا۔

أَنْشَى مِنَ الشَّيْءِ: ناک بھول چڑھانا۔

فَلَانَا: قیامت کرنا۔

نَج (ض) نَجًا وَنَجِيحًا الرَّجُلُ: جلدی کرنا۔ صفت نَجْوَجٌ الْقَرْحَةُ: زخم سے مواد بہانا۔

نَج (ن) نَجًا الشَّيْءُ مِنْ فِيهِ: منجھ سے پھینکنا۔

نَجَاهُ (ف) نَجًا وَتَنْجَاهُ وَالتَّنْجَاهُ: نظر بد لگانا۔

رَجُلٌ نَجْوُ العَيْنِ وَنَجْوُهَا وَنَجِيهًا وَنَجِيهًا: بہت تیز نظر لگانے والا۔

نَجَاهُ السَّائِلِ: مانگنے والے کی حریصانہ نظر۔

نَجَب (ك) نَجَابَةُ الوَلَدِ: شریف الاصل ہونا۔ قول و فعل میں لائق ستائش ہونا۔ صفت نَجِيبٌ.

نَجَب (ض ن) نَجِيبًا وَنَجَبًا وَالتَّنَجَّبُ الشَّجَرَةَ: درخت سے چھال اتارنا۔

وَالتَّنَجَّبُ الشَّيْءَ: چھنا۔ برگزیدہ کرنا۔

أَنْجَبَ: شریف الاصل ہونا.....

السَّرْجُلُ: شریف بچوں کا باپ ہونا۔ بزدل بیٹے کا باپ ہونا اور کہا جاتا ہے "أَنْجَبَ بِهِ

أَبْوَاهُ" اس کے والدین نے شریف بچہ جتنا۔

اسْتَنْجَبَ: شرفاً کو طلب کرنا۔

النَّجَبُ وَالتَّنَجُّبَةُ: نجی۔ شریف۔ فیاض۔

النَّجَبُ مِنَ الشَّجَرِ: چھال یا جڑ کی چھال۔

التَّنَجُّبَةُ: شرافت۔

النَّجِيبُ: شریف۔ شریف خاندان۔

النَّجَابُ وَنَجِيبًا وَنَجَبٌ مَوْثِقٌ نَجِيبٌ وَنَجِيَّةٌ: نجائب۔ نجائب الشَّيْءِ وَنَوَاجِيهُ: کسی چیز کا مغز جس پر چھلکانہ ہو۔ خالص۔

الْمِنْجَابُ (مذکر مؤنث) ج مَنَاجِبُ وَالمُنْجَبُ ج مَنَاجِبُ مَوْثِقٌ مُنْجِبَةٌ: شریف اولاد والا ہونا۔

الْمِنْجَابُ: ست و کزور بغیر پرد پیکان کے تیز۔ کرلیٹی۔

الْمَنْجُوبُ: کشادہ برتن۔

نَجَّتْ (ن) نَجَّسًا وَتَنَجَّسَتْ عَيْنُ الْأَمْرِ: کھود کرید کرنا۔ تفتیش کرنا.....

الشَّيْءُ: نکالنا۔ نَجَّتِ القَوْمُ: قوم سے فریاد کرنا۔

تَنَجَّتِ القَوْمُ الْأَخْبَارَ: ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کرنا۔

إِنْتَجَتْ وَاسْتَنْجَتْ: نکالنا۔ اسْتَنْجَتْ لِلشَّيْءِ: درپے ہونا۔

النَّجْعُ وَالتَّنَجُّعُ: دل کا غلاف۔ زرہ۔ مکان۔ ج آنجاث۔

رَجُلٌ نَجِثٌ: خبروں کی تلاش و جستجو رکھنے والا۔

النَّجِثَاتُ: امور کی کھود کرید کرنے والا۔

النَّجِيثُ: نجفی مجید۔ ناشائست۔

النَّجِيثَةُ: بڑی خبر جو ظاہر ہو جائے۔ کنوئیں اور جو ہڑ کی مٹی۔

نَجَّحَ (ف) نَجَّحًا وَنَجَّحًا وَنَجَّحًا الْأَمْرَ: آسان و سہل ہونا۔ نَجَّحْتُ حَاجَتَهُ فَلَانٌ وَنَجَّحَ فَلَانٌ بِحَاجَتِهِ: کامیاب و فتح مند ہونا۔

نَجَّحَهُ: کامیاب کرنا۔

أَنْجَحَ: کامیاب و فتح مند ہونا..... السَّنَةُ حَاجَتُهُ: حاجت پوری ہونا۔ صفت مُنْجِحٌ ج مَنَاجِحٌ وَمَنَاجِيحٌ وَأَنْجَحَ فَلَانٌ بِالْبَاطِلِ: باطل پر غالب ہونا. أُنْجِحَ الْبَاطِلُ بِفُلَانٍ: باطل کا غالب ہونا۔

تَنْجَحُ الحَاجَةَ: وعدہ کرنے والے سے پورا کرنے کو کہنا۔

تَنَاجَحَتْ عَلَيْهِ أَخْلَامُهُ أَوْ مَسَاجِيهُ: پے پے درست ہونا۔

اسْتَنْجَحَ فَلَانًا حَاجَتَهُ: حاجت پوری کرنے کو کہنا۔

النَّجَاحُ وَالتَّنَجُّحُ: محص۔ کامیابی۔

التَّنَاجُحَةُ: صبر۔

النَّاجِحُ: فاسد۔ تیز اور تیز چال۔

النَّجِيحُ: درست رائے۔ کہا جاتا ہے "رَأْيٌ نَجِيحٌ" وہ شخص جس کی رائے درست ہو اور اس کے امور کامیاب ہوتے ہوں۔ صابر۔

مَوْثِقٌ نَجِيحَةٌ: کہا جاتا ہے "نَفْسٌ نَجِيحَةٌ".

مَسِيرٌ نَجِيحٌ: تیز چال۔ مَسْكَانٌ نَجِيحٌ: قریب جگہ۔

نَجَّخَ (ف) نَجَّخًا: فخر کرنا.....

النَّوْءُ: ہتھیار کا جوش میں آنا..... السَّيْلُ: یکبارگی زور سے آنا۔

البَسْبَسُ: بدبھنی والا ہونا۔ صفت نَجِيحٌ البَسْبَسُ: کٹواں کھودنا۔

تَنَاجَحَ المَوْجُ: موج کا ایک دوسرے سے ٹکرانا۔ تَنَاجَحًا: باہم فخر کرنا۔

النَّاجِحُ: فاسد۔ کھانسنے والا۔ نَاجِحٌ النَّخْرُ: سمندر کا شور۔

النَّاجِحُ وَالتَّنَجُّوحُ: شور کرنے والا سمندر۔

سَيْلٌ نَاجِحٌ: بہت تیز بہاؤ کا سیلاب جو زمین کو کھود دے۔

نَاجِحَةُ المَاءِ وَنَجِيحَةُ: پانی کی آواز۔

النَّجَاحُ: کھانسنے والے کی آواز۔

نَجَّحَاتُ المَاءِ: پانی کی بوچھاڑیں۔

النَّجِيحَةُ: کھن جو دودھ کے برتن میں کناروں پر چپک جائے۔

إِسْرَافَةٌ نَجَاحَةٌ: وہ عورت جس کی اندام نہانی سے جماع کے وقت آواز نکلے اور بقول بعض وہ عورت جو جماع سے آسودہ نہ ہو۔

نَجَّدَهُ (ن) نَجَّدًا: مدد کرنا۔ غالب ہونا۔

نَجَّدَ (ن) نَجَّدًا الْأَمْرَ: واضح ہونا.....

البَدْنُ عَرْفًا: بدن سے پسینہ بہنا..... الشَّيْءُ مِنَ الْأَرْضِ: نکلنا۔

نَجَّدَ (س) نَجَّدًا الرَّجُلَ: کام یا گھبراہٹ سے پسینہ آنا۔ صفت نَجَّدٌ: ٹھکانا۔ بلیہ ہونا۔

نَجَّدَ نَجَّدًا الرَّجُلَ: ٹھکین ہونا۔ صفت مَنَجَّدٌ وَنَجِيدٌ.

نَجَّدَ (ك) نَجَّدَةً وَنَجَادَةً: دلیر ہونا دوسروں کو عاجز کرنے والے امور کا پورا کرنے والا ہونا..... (نَجَّدًا) واضح ہونا۔ ظاہر ہونا۔ صفت نَاجِدٌ وَنَجْدٌ.

نَجَّدَ البَيْتَ: مکان کو آراستہ کرنا.....

النَّجَادُ القَرَشُ: فرس ساز کا فرش کو بنانا اور

سینا..... الدَّهْرُ فَلَانَا: تجربہ کار بنانا
 الرَّجُلُ: دوزنہ۔
 نَاجِدَةٌ مُنَاجِدَةٌ: مدد کرنا۔ مقابلہ کرنا۔ جنگ
 کے لئے لڑنا۔
 اَنْجَدَةٌ: مدد کرنا۔ اَنْجَدَ الرَّجُلُ: پیڑ والا
 ہونا۔ نجد میں آنا یا نجد کی طرف سفر کرنا۔
 اپنے اہل و عیال سے قریب ہونا.....
 البِنَاءُ: عمارت کا بلند ہونا..... الدَّعْوَةُ: قبول
 کرنا۔ اَنْجَدْتَ السَّمَاءَ: بادل سے صاف
 ہونا۔
 تَنْجَدُ الشَّيْءُ: بلند ہونا۔
 اِسْتَنْجَدَ: دلیر ہونا..... فَلَانَا وَبِهِ: مدد طلب
 کرنا..... غَلِيْهِ: خوفزدہ ہونے کے بعد
 دلیری کرنا۔
 نَجْدٌ: مصل۔ نلک۔ نجد۔
 النجْد: بلند زمین۔ ج. وَاَنْجَدَ وَنَجَدَ
 وَنَجَادَ وَنَجُوْدَ وَانْجَادَ وَانْجَدَةَ كَمَا جَاءَتْ
 فِي "هُوَ طَلَاغُ اَنْجِدٍ وَانْجَدَةٍ وَنَجَادَ
 وَطَلَاغُ النِّجَادِ" وَهُوَ مُشْكَلٌ اُمُوْرٍ يَرْغَبُ
 اَنْ يَنْجُوَ مِنْهَا وَهُوَ اِسْمٌ فِي "طَلَاغُ
 الشَّيْءِ" كَمَا يَبْدُو كَمَا جَاءَتْ فِي "وَالا
 النُّجْدُ: مکان کی آرائشی کا سامان۔ ج.
 نِجَادٌ وَنَجُوْدٌ النُّجْدُ: باہر رہنا۔ درختوں
 سے خالی جگہ۔ کرب و غم۔ پستانِ بلند
 راستہ۔
 رَجُلٌ نَجِدٌ وَنَجِدٌ وَنَجِدٌ: دلیر مرد۔
 دوسروں کو عاجز کر دینے والے امور کا پورا
 کرنے والا۔ دعوت کو بہت جلدی قبول
 کرنے والا۔ ج. اَنْجَادُ.
 النجْد: پیڑ۔ گھر کا سامان۔ بچھونا۔ پردہ
 وغیرہ۔ ج. اَنْجَادُ.
 السَّنَجْدَةُ: مصل۔ اسمِ مرءة۔ بہادری و
 دلیری۔ طاقت و جتن۔ کہا جاتا ہے "لَا قَسِي
 فُلَانٌ نَجْدَةٌ" فلاں جتن میں پڑ گیا۔ مقاتلہ۔
 گھبراہٹ۔ ج. نَجْدَاتُ.
 النِّجَادُ: پڑتلہ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ طَوْنُ
 النِّجَادِ" وہ بے پڑتلے والا ہے۔ کنایہ ہے

طویل القامت ہونے سے۔
 النجادة: فرش سازی کا پیشہ۔
 النجيد: بہادر۔ ایسے امور کو انجام دینے
 والا جو دوسروں کو عاجز کر دیں۔ شیر۔
 غمگین۔ ج. نَجِدٌ وَنَجْدَةٌ.
 الناجد: قاتل۔ مَوْتٌ نَاجِدَةٌ: ج. نَوَاجِدُ.
 النجَاد: فرش ساز۔
 نَجُوْدُ النِّيْبِ: مکان کو آراستہ کرنے کے
 لئے دیواروں کے پردے۔
 النجود من الإبل والأتين: لمبی گردن والا۔
 چلنے میں آگے رہنے والا..... مِّنْ
 النِّسَاءِ: عقلمند عورت۔ شریف عورت۔ ج.
 نَجْدٌ.
 السناخود: شراب۔ شراب کا برتن۔ خون
 زعفران۔ ج. نَوَاجِدُ.
 المنجد: عورتوں کا ایک زیور جس کو گردن
 میں ڈالتی ہیں اور سینے کے نیچے تک ہوتا
 ہے۔ چھوٹا پہاڑ ج. مَنَاجِدُ.
 المنجدة: اون وغیرہ دھننے کا ککڑی کا اوزار
 جانوروں کو ہانکنے کے لئے چھوٹی سی
 چھڑی۔ ج. مَنَاجِدُ.
 رَجُلٌ مِّنْجَادٌ: بہت مدد کرنے والا مرد۔
 المنجد: مفتح۔ مغموم۔ ہلاک ہونے والا۔
 نَجْدَةٌ (ض): نَجْدًا: دائروں سے کاٹنا۔
 اصرار کرنا۔
 نَجْدَةٌ: تجربہ کرنا۔ آزمانا۔ نَجْدَتُهُ
 وَالتَّجَارِبُ: تجربہ کار بنانا.....
 البلائيا: مصیبتوں کا لاحق ہونا۔
 الناجد: قاتل۔ نَوَاجِدُ: کا واحد معنی داڑھ۔ کہا
 جاتا ہے "عَضَّ عَلَيَّ نَاجِدُهُ" وہ بالغ ہو گیا
 کمال عقل کو پہنچ گیا۔ اس لئے کہ نواجید بلوغ
 و کمال عقل کے بعد نکلتی ہے۔ "وَضَحِكُ
 حَسْبِي بَدَتْ نَوَاجِدُهُ" وہ کھلکھلا کے ہنس
 پڑا۔ "وَابَدَتْ الْحَرْبُ نَاجِدِيهَا" لڑائی تیز
 ہو گئی و عَضَّ الرَّجُلُ عَلَيَّ نَاجِدِيهِ: یعنی
 اُس نے صبر کیا۔
 المنجاد: نَجٌّ مِّنْجُدٍ مِّنْ غَيْرِ لَفْظِهِ: بمعنی

چھوٹا۔
 نَجْوَانٌ (ن) نَجْوَانُ النِّيْمِ: دن کا گرم ہونا۔
 النماء: پانی کو گرم پتھر سے داغ کرنا.....
 الرَّجُلُ: مار کر ہٹانا..... الخشب: ککڑی کو
 چھیل کر ہموار کرنا..... الشئ: ارادہ کرنا۔
 الإبل: اونٹ کو ہانکنا۔
 نَجْوَانٌ (س) نَجْوَانٌ: سخت پیاسا ہونا۔
 اَنْجَسَ فَلَانَا: دودھ کھنی آٹے سے بنا ہوا
 کھانا پیش کرنا۔
 النسجر: مصل۔ اصل۔ حسب۔ رنگ۔
 گرمی۔
 النسجر: سخت پیاس جو اونٹ وغیرہ کو لاحق
 ہوتی ہے اور بچھتی نہیں۔
 السناجر: گرمی کے مہینوں میں سے ہر ایک
 مہینہ۔
 النجار والنجار: اصل۔ حسب۔ رنگ۔
 النجاسة: بڑھتی کا پیشہ۔
 النجاسة: ککڑی کا پھیلنا۔ رندہ کرتے وقت
 جو گرے۔
 النجار: بڑھتی۔
 المنسجر: تیشہ۔
 النجيرة: ککڑی کی چھت۔ دودھ کھنی آٹے
 سے بنا ہوا کھانا۔ گرم پتھر سے داغ کیا ہوا
 پانی۔ بدلہ۔ کہا جاتا ہے "لَا نَجْوَانٌ
 نَجْوَانٌ" میں تم کو بدلہ دوں گا جس کے تم
 مستحق ہو۔
 النسجران: ککڑی کی چول جس پر دروازہ
 گھومتا ہے۔ پیاسا اور زمین اور حوران کے
 دو شہروں کا نام نَجْوَانٌ ہے۔
 اِسْمٌ نَجْوَانِيٌّ وَنَجْوَانِيٌّ وَنَجْوَانِيٌّ: پیاسے
 اونٹ۔
 الانجر والانجرة: لنگر۔ ج. اَنْجَارٌ (دخیل)
 المنسجر: مقصد جو راستہ سے بنا ہوا نہ ہو۔
 المنسجرة: پانی داغ کرنے کا گرم پتھر۔
 المنسجر: اونٹوں کو بہت تیز ہانکنے والا۔
 بندہ۔
 المنسجور: مفتح۔ کونیس سے پانی نکالنے کی

مفعولاً نَجِيفٌ وَمَنْجُوفٌ الشَّجَرَةُ :
درخت کو جڑ سے کاٹنا..... الشَّلَاةُ: بکری
کا سارا دودھ دوہ لینا۔
نَجِيفٌ لِفُلَانٍ نَجِيفَةٌ مِنَ اللَّيْنِ: کسی کے لئے
تھوڑا سا دودھ علیحدہ کرنا۔ نَجِيفَتِ الرِّيحُ
الْكَيْبُ او الرَّمْلُ: ہوا کا ریت کے تودہ یا
ریت کو اڑا دینا۔
اِنْتَجِفَ وَاِسْتَجِفَ الشَّيْءُ: نکالنا۔ الرِّيحُ
السَّحَابُ: ہوا کا بادل کو پانی سے خالی کر
دینا..... الشَّلَاةُ: بکری کا سارا دودھ دوہ
لینا۔
النَّجْفُ نَجْفٌ وَنَجَافٌ وَالنَّجْفَةُ: ٹیلہ۔ وادی
میں وہ جگہ جہاں پانی نہ چڑھے۔
النَّجَافُ: دروازہ کے اوپر کا گچھو۔ نَجَافُ
الغَارِ: غار کے اوپر آگے کو نکلا ہوا گچھو۔
النَّجِيفُ: چوڑے پھل والا تیر۔ نَجْفُ
الْمَنْجِفِ: زنبیل۔ نوکری۔
السَّمْنُوفُ: مٹخ۔ چوڑے پھل والا تیر۔
الْمَرْسُ: چوڑا برتن یا قبر۔
النَّجْفَةُ: تھوڑی چیز۔
نَجَلٌ (ن) نَجَلًا الشَّيْءُ: ظاہر کرنا.....
الْأَرْضُ: زمین جو تہا۔ نَجَلَهُ أَبْوَهُ وَنَجَلَ
بِهِ: پیدا کرنا۔ نَجَلَتِ الْأَرْضُ: زمین کا
سر سبز ہونا۔ نَجَلَ فَلَانًا: ٹھوک کر مارنا یہاں
تک کہ کڑھک جائے۔
النَّاسُ: شرارت کرنا۔ کہا جاتا ہے "مَنْ نَجَلَ
الشَّاسَ نَجَلُوهُ" جو لوگوں کو عیب لگاتا ہے
لوگ اسے عیب لگاتے ہیں۔ جو لوگوں کو گالی
دیتا ہے لوگ اسے گالی دیتے ہیں و نَجَلَ
النَّجْلُذَ عَنِ الْمَذْبُوحِ: دونوں پھیلنے ٹانگوں
کے درمیان کھال کاٹ کر سر کی طرف سے
کھینچ لینا۔ کھال کو منجھول کہتے ہیں۔
نَجَلَ (ض) نَجَلًا الشَّيْءُ وَبِالشَّيْءِ: پھینکانا۔
هُ بِالرَّمْعِ: نیزہ مارنا..... الصَّبِيُّ اللُّوْحُ: بچہ
کا تختی کو منانا..... الرَّجُلُ: تیز چلنا۔
نَجَلَ (س) نَجَلًا الرَّجُلُ: بڑی اور
خوبصورت آنکھوں والا ہونا۔ صفت

اِنْتَجَلَ نَجْلًا وَنَجَلَ: آگے کی صفت۔
نَجَلًا نَجْلًا نَجْلًا.
اِنْتَجَلَ الدَّابَّةُ: نَجِيلٌ (ایک قسم کی ترش
گھاس) چرنے کے لئے چھوڑنا۔
تَنَاجَلَ القَوْمُ: بھگڑا کرنا۔ نسل پیدا کرنا۔
اِنْتَجَلَ الْأَمْرُ: ظاہر ہونا اور گزرنا۔
اِسْتَجَلَ الْمَكَانُ: کسی جگہ سے پانی کا
بکثرت رسننا..... فَلَانٌ السَّرُّ (زمین سے)
سونا نکالنا۔
النَّجْلُ: مٹخ۔ اولاد۔ نسل اور کہا جاتا ہے
"هُوَ كَوْنُهُمُ النَّجْلُ" وہ کریم الاصل و شریف
الطبع ہے والد۔ نَجَّ اِنْتَجَلَ: النَّجْلُ: عمل۔
بڑی جماعت۔ سڑک۔ پینے والا پانی۔
زمین سے رسنے والا پانی نَجَّ اِنْتَجَلَ
وَالنَّجَالُ.
النَّجَالُ: فا۔ شریف النسل (انسان یا
حیوان) مَوْنُثٌ نَاجِلَةٌ: نَجَّ اِنْتَجَلَ
وَالنَّوَجِلُ. النَّوَجِلُ: بخیل (ایک قسم کی ترش
گھاس) کے چرنے والے اونٹ۔
الْاِنْتَجَالُ: کشادہ لہا چوڑا۔ نَجَّ نَجْلًا وَنَجَالَ
مَوْنُثٌ نَجَلًا نَجْلًا نَجْلًا کہا جاتا ہے "طَعَنَهُ
طَعْنَةً نَجَلًا" اس نے اسے کشادہ زخم
کرنے والا نیزہ مارا۔
النَّجِيلُ: ایک قسم کی ترش گھاس۔ اسی گھاس
کی ٹولی ہوئی پیتاں۔ نَجَّ نَجْلًا.
النَّجَلِيَّاتُ: جو گندم وغیرہ کی فصلیں جن کی
بالی گھول دار اور سیدھی ہو۔
الْمَنْجِيلُ: وراثتی۔ نَجَّ مَنَاجِيلَ.
الْمَنْجِيلُ: منجان بھیتی۔ بہت اولاد والا۔ ماہر
اونٹ ہانکنے والا۔ اور کہا جاتا ہے "سَيَسَانُ
مَنْجِلًا" چوڑا زخم کرنے والا بھالا۔
نَجْمٌ (ن) نَجْمًا الشَّيْءُ: ظاہر ہونا۔ کہا
جاتا ہے "نَجَمَتِ الْكَوَاكِبُ" ستارے
طلوع ہوئے۔ وَنَجْمَ النَّبْتُ: بھری آگی۔
وَنَجْمَ السِّنُّ او الْقُرْنُ: دانت یا سینگ نکل
آئے۔ وَنَجْمَ فَيْ بَنِي فَلَانٍ شَاعِرًا او
قَسَائِرًا: بنو فلان میں بے مثال شاعر یا

شہسوار ظاہر ہوا..... كَمَا عَنِ مُحَمَّدًا: فلان
چیز سے ایسا نتیجہ برآمد ہوا..... فَلَانٌ
الذِّئْبُ: قسطوں میں ادا کرنا..... السَّهْمُ او
الرَّمْحُ: تیر یا نیزے کا پار ہونا۔
نَجْمٌ: احوال عالم معلوم کرنے کے لئے
ستاروں کو دیکھنا..... الذِّئْبُ: قرض کو قسطوں
میں ادا کرنا..... عَلَيْهِ الدِّيْنَةُ: دیت کی قسط
مقرر کرنا۔
اِنْتَجَمَ الشَّيْءُ: ظاہر ہونا۔ اِنْتَجَمَتِ
السَّمَاءُ: آسمان پر تاروں کا کھل جانا۔
اِنْتَجَمَ الشِّتَاءُ او البَرْدُ: جاڑے اور سردی کا
ختم ہونا..... الرَّجُلُ عَنِ الْأَمْرِ: چھوڑنا۔
اِنْتَجَمَتِ الْحَوْبُ: لڑائی کا ختم ہونا۔
اِنْتَجَمَ البَرْدُ وَ الشِّتَاءُ: جاڑے یا سردی کا
گزر جانا۔ ختم ہونا۔
نَجْمٌ: احوال عالم معلوم کرنے کے لئے
ستاروں کو دیکھنا۔
النَّجْمُ نَجْمٌ وَنَجْمٌ وَالنَّجْمُ وَالنَّجْمُ
وَالنَّجْمُ: ستارہ اور ثریا پر بھی المطلق ہوتا
ہے۔ ادا کی قرض کا مقررہ وقت۔ وقت
مقررہ پر ادا کی ہوئی قسط۔ کہا جاتا ہے
"جَعَلْتُ مَا لِي عَلَيْهِ نُجُومًا مُنْجَمَةً يُؤَدِّي
كُلَّ نَجْمٍ مِنْهَا فِي وَقْتٍ كَذَا" میں نے
اس پر قسط مقرر کر دی کہ ہر قسط فلان وقت
میں ادا کرے۔
النَّجْمُ: نکل۔ بغیر تہ کے بات۔ اصل کہا
جاتا ہے "هَذَا الْحَدِيثُ لَا نَجْمَ لَهُ" اس
بات کے لئے کوئی اصل نہیں۔
النَّجْمَةُ: ستارہ اور یہ نجم سے خاص ہے
كَلِمَةٌ (..... وَالنَّجْمَةُ) دو گھاسوں کے
نام۔ النَّجْمَةُ: ایک نکل ہے جو زمین پر پھیلتی
ہے اور کہا گیا ہے کہ "نَيْلٌ" اور "نَجْمَةُ" اور
"عَكْرَشُ" ایک ہی چیز کے نام ہیں "ذُو
النَّجْمَةِ" گدھا۔
النَّجْمُ مِنَ النَّبَاتِ: تازہ گھاس۔
النَّجْمُ وَالْمُنْجَمُ وَالْمُنْتَجِمُ: نجومی۔
النَّجْمُ: نکلنے کی جگہ۔ معدن۔ واضح

راستہ۔ المِنْجَم: ترازو کی لوہے کی ڈنڈی۔ نَجْنَجٌ نَجْنَجَةٌ فِي زَاوِيَةٍ: متحیر ہونا۔ مضطرب ہونا۔ غَيْبُهُ: دشمنی ہوئی آنکھ ہونا۔ الْإِيل: اونت کو چراگاہ سے روکنا۔ پانی سے واپس کرنا۔ فَلَانًا عَنْهُ: منع کرنا۔ الشَّيْ: حرکت دینا۔ الْأَمْرُ: پختہ ارادہ نہ کرنا۔	اِسْتَنْجَسِي مِنْ كَثْمًا: رہائی پانا۔ الشَّجْرَةُ: درخت کو جڑ سے کاٹنا۔ الشَّيْ: منْ فُلَانٍ: چھڑوانا۔ الرَّجُلُ: پانچناہ کرنے کے بعد دھونا۔ حِيلِي: پونجھنا۔ الشَّمْرُ: پھل چننا۔ الْقَوْمُ: ترجمویریں حاصل کرنا یا کھانا۔ الرَّجُلُ: تیز چلنا۔ تَكَثَّرَ كَهَاتَا۔
تَتَجَنَّجُ الرَّجُلُ: متحیر ہونا۔ الشَّيْ: بلنا۔ نَجْحَهُ (ف) نَجْحُهُ: واتسجہ وتنججہ الرَّجُلُ: بُرِي طَرِحَ سَهْمَانَا: بُرِي صَوْرَتِ سَهْمَانَا۔ نَجْحَهُ عَلَي الْقَوْمِ: ظاہر ہونا۔ الْبَلَدُ: شہر میں داخل ہونا اور ناپسند کرنا۔ نَجْحَانُ يَنْجُو نَجَاةً وَنَجَاءً وَنَجْوًا وَنَجَاةً مِنْ كَثْمًا: نجات پانا۔ رہائی پانا۔ نَجْحَانُ يَنْجُو نَجَاءً: تیز چل کر آگے بڑھنا۔ (نَجْوًا) الشَّجْرَةُ: درخت کاٹنا۔ الصَّيْ: بچنے کا پانچنا نہ کرنا۔ فَلَانًا: رہائی دینا۔ جَھْرَانَا: اللّٰوَاءُ: دو اپنا۔ النَّجْوُ مِنْ الْبَطْنِ: پانچنا نہ لکھنا۔ نَجْوًا وَنَجَاةً الْجِلْدُ عَنِ الْدَّبْحَةِ: کھال اتارنا۔ نَجْوًا وَنَجْوَى: وَنَجْوَى مَنَاجِيَةً وَنَجَاءً) الرَّجُلُ: سرگوشی کرنا۔ اِسْمُ النَّجْوَى: نَجْوَى تَنْجِيَةً الرَّجُلُ مِنْ كَثْمًا: رہائی دلانا۔ بَلَنْدَرِ مِينَ مِیں چھوڑنا۔ اَسْتَجْسِي الرَّجُلُ: رہائی دلانا۔ الرَّجُلُ: پانچنا نہ کرنا۔ فَلَانًا غَضْنَا: کسی کے لئے تہنئی کاٹنا۔ الْجِلْدُ: کھال اتارنا۔ السَّخْلَةُ: کچی کھجوروں والا ہونا۔ الرَّجُلُ: بے پختہ لکھنا اور کہا جاتا ہے "شَرِبَ دَوَاءً فَمَا نَجَاهُ" اس نے دوا پی فائدہ نہیں ہوا۔ تَنْجِي: بَلَنْدَرِ مِينَ ڈھونڈنا۔ تَنَاجِي تَنَاجِيًا الْقَوْمُ: سرگوشی کرنا۔ اِسْتَجْسِي الْقَوْمُ: سرگوشی کرنا۔ الرَّجُلُ: سرگوشی کے لئے خاص کرنا۔ رَاوِدَارِ بَنَانَا۔	
نَجْحَانُ (ض) نَجْحِيهَا الرَّجُلُ: سینہ میں آواز گزرتا۔ نَجْحَانُ (ن) نَجْحَانُ الْجَمَلُ: تیز چلنے پر اُکسانا۔ النَّجْحُ: مَصْنُوعٌ: نَجْل (ضد) نَجْحَانُ (ض) نَجْحَانُ: فلاں حریمیں ڈھیل ہے۔ الرَّجُلُ: رونے میں آواز بلند کرنا۔ نَجْحَانُ (ض) نَجْحَانُ وَنَجْحَانَا: البَعِيرُ: کھانا۔ نَجْحَانُ (ن) نَجْحَانُ وَنَجْحَانُ الرَّجُلُ: نذر ماننا۔ نَجْحَانُ وَنَجْحَانُ الْقَوْمِ فِي سَبْرِهِمْ: جلدی سے چلنا۔ نَجْحَانُ عَلَي الشَّيْ: مشغول ہونا۔ ثَوْتُ پڑنا۔ نَجْحَانُ مَنَاجِيَةً: مفاخرت کرنا۔ كَثْمًا: شَرَطَا كَثْمًا: اِلَى فُلَانٍ: قبیلہ کے لئے جانا۔ تَنَاجِي الْقَوْمُ: جگمگ وغیرہ کے لئے وقت معین کرنا۔ اِسْتَجْسِي: بہت رونا۔ زور سے بے بس سانس لینا۔ پھوٹ کر رونا۔ النَّجْحُ: مَصْنُوعٌ: سخت گریہ۔ کھانسی۔ سختی۔ موت۔ مدت۔ وقت۔ بڑا خطرہ۔ بہت۔ نفس۔ نیند۔ موٹاپا۔ بڑے جسم کا اونٹ۔	

حاجت۔ ذلیل۔ جوا۔ تیز چال۔ یا آہستہ چال۔ نذر۔ کہا جاتا ہے "قحطی فلان" نخبہ" فلاں نے اپنی نذر پوری کر دی۔ یعنی مر گیا گویا کہ موت اس کے ذمہ نہ تھی۔
النخبۃ: قرعہ۔

المنحجب: فا۔ منیز منجب: تیز چال۔

نحت (ض ن) ونحت (س) نختا
الغود: بکڑی چھینا..... الحجز: پتھر کو ہموار کرنا
الخشبة: بکڑی چھیل کر ہموار کرنا
.....: پچھاڑنا..... السفر البعیر: ڈبلا کرنا
.....: الجبل: پہاڑ ٹھونڈا..... الکلمة: دو یا

زائہ کلمات سے ایک کلمہ بنایا جیسے
صہصلق۔ صہل وصلق: سے بصلمة۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ خو قللة
لا حول ولا قوۃ الا باللہ سے۔ فذلک
فذلک کذا و کذا: سے نختہ

بالغصا: الجئی مارنا..... ہلسناہ: نیت کرنا
..... ملامت کرنا۔ گالی دینا..... عرصۃ: طعن
کرنا۔ بے آبروئی کرنا..... اثلنہ: وہی
اثلنہ: مذمت کرنا۔ حسب میں طعن کرنا اور کہا
جاتا ہے "نحت فلان علی الکوم" یعنی

فلاں شخص فیاض پیدا کیا گیا ہے۔
نحت (ف) نحینا: چیخس ہونا۔

انصحت من الخشبۃ ما یجفله فی
النار: آگ میں ڈالنے کے لئے چھپچھیاں
کا ٹٹاوانصحت الخشبۃ: بکڑی کا چھپچھیاں
ہونا۔

النحت: ممس (.....) والنحات
والنحینۃ: طبیعت۔ کہا جاتا ہے "ہو کرمیم
النحینۃ" وہ کرمیم الطبع ہے۔
النحینۃ: چیخس۔

النحاتہ: تراش۔ چھیلن۔ وہ ریزے جو
کانٹے سے گریں۔

النحات: سنگ تراش۔ بہت چھیلنے والا۔

النحینت: ممس۔ چھیلا ہوا۔ گریز و زاری۔
چیخس۔ ڈبلا اونٹ۔ رومی چیز۔ کٹھی قوم
میں اجنبی..... من الخوافر: کنارے گھسا

ہوا کھر۔

المنححت ن مناجحت والمنححت ن
مناجحت: بکڑی تراشے کا آلہ۔ بولہ۔ کہا
جاتا ہے "ہو من منحت صدق" وہ
خالص اصل سے ہے "وہم بکرام المنابت
والمناحت وہ لوگ فیاض و اصل خاندان
سے ہیں۔

نحو (ف) نحوا وتنحازا. البینۃ: سید
پر مارنا۔ ذبح کرنا..... فلان: مقابلہ کرنا۔ کہا
جاتا ہے "نحو بیعی بنیہ" میرا گھر اس کے
گھر کے مقابل ہے "ونحو الأمور
علینا" یعنی اس نے معاملات کو مضبوط
طریقے سے کیا۔ الصلاۃ: اول وقت میں
نماز پڑھنا..... النصلی فی الصلاۃ: سید
نکال کر کھڑا ہونا۔

ناحرة مناحرة: جھگڑا کرنا۔
تناحر القوم علی کذا: جھگڑا کرنا۔
تناحرت الذاران: ایک دوسرے کے
مقابل ہونا..... القوم عن الطریق: راستہ
سے تجاوز کرنا۔ ہٹ جانا..... علی الطریق
وغیرہ: بے درپے آنا۔

انصحر الرجل: خود کشی کرنا..... القوم علی
الامر: جھگڑا کرنا۔ انصحر السحاب: بہت
پانی لے کر اٹھنا..... ہ بالغصا: مارنا۔

النحور: ممس۔ سینہ کا بالائی حصہ۔ ن
نحور کہا جاتا ہے "قعد فی نحور
فلان" یعنی اس نے فلاں کا مقابلہ کیا۔
"نحور النهار او الشہر" دن یا سینے کا
ابتدائی حصہ۔ یوم النحر: ماہ ذی الحجہ کا
دسواں دن۔

النحور: حافظ۔ ماہر۔ مجھدار۔ دانا پنا۔

النحور: فا۔ الناحران: سینہ کی دو رگوں کا
نام۔

الناحرة: الناحر کا مؤنث۔ مبینہ کا پہلا دن
یا آخری دن یا آخری رات۔ ن نواحرو
ناحرات. الناحرتان: سینہ کی دو رگوں کا
نام۔

النحور: ذبح کرنے والا۔

النحور: حاذق۔ مجھدار۔ عقلمند۔ ن
نحاور۔

النحیر: ذبح کیا ہوا۔ ن نحوی ونحواء
ونحاور۔

النحیرۃ: نحیر: کامؤنث۔ طبیعت..... بین
الشہر: مبینہ کا پہلا دن یا آخری دن یا
آخری رات۔ ن نحاور۔

المنحور: طلق میں ذبح کرنے کی جگہ۔ مقام
ذبح۔

المنتحر: کشادہ راستہ۔

المنحار: کرمیم۔ فیاض۔ بہت ذبح کرنے
والا۔ مہمان نواز۔ کہا جاتا ہے "انہ لیمنحار"
بسوا لکھنا" وہ موئے اونٹوں کو بہت ذبح
کرنے والا ہے یعنی بڑا مہمان نواز ہے۔

المنحور: سینہ کا بالائی حصہ۔ ن مناجحیر۔
نحزہ (ف) نحزوا: ذبح کرنا۔ ہناتا۔
چھوٹا۔ ہاون میں کوٹنا..... ہر خلیہ: شوکر
مارنا..... فی صدرہ:

نحز ونحز (ک) ونحز (س) نحزوا
ونحز البعیر: بچھیرنے کی بیماری والا
ہونا۔ صفت نحز ونحز ونحز ومنحور۔
نحز (س) نحزوا الرجل: کھانسا۔

انصحر القوم: بچھیرنے کی بیماری والے
اونٹوں کا مالک ہونا۔

النحاز: اونٹوں کی ایک بیماری جو بچھیرنے
میں ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے بہت کھانستے
ہیں (.....) والنحاز: اصل۔ کہا جاتا ہے "ہو
کرمیم النحاز" وہ کرمیم الاصل ہے۔

النحیرۃ: طبیعت۔ کہا جاتا ہے "ہو کرمیم
النحیرۃ" وہ کرمیم الطبع ہے۔ نحت راستہ۔

بڑے راستہ سے نکلا ہوا چھوٹا راستہ۔ ن
نحانز۔

المنحاز: ہاون۔ اوکھلی۔

نحس (ف) نحسا ونحس (ک)
نحاسة ونحوسة طالع الإنسان: بد قسمت
ہونا۔ منحوس ہونا۔ صفت نحس ونحس

وَمِنْ حُوسٍ أَوْ كَمَا جَاءَتْ فِي "يَوْمٍ نَحْسٍ
وَنَجَسٍ وَنَجَسٍ وَنَجِسٍ وَأَيَّامٍ نَوَاجِسٍ
وَنَحْسَاتٍ وَنَجَسَاتٍ" نَامِبَارِكُ دِنٍ -
نَحْسَةٌ (ف) نَحْسًا: تَطْلُمُ كَرْمًا -

أَنْحَسْتُ النَّارَ: آگ کا زیادہ دھوئیں والی
ہونا -

نَحْسُ الْأَخْبَارِ: تجسس کرنا۔ سن گن لینا۔

تَنَحَّسَ الرَّجُلُ: بھوکا ہونا۔ لَشْرَبُ
السُّدُوَاءِ: دوا پینے کے لئے بھوکا رہنا۔

وَأَسْتَنَحَسُ (الْأَخْبَارَ وَغَنِيهَا): تجسس کرنا
اور حقیقت دریافت کرنا۔

تَنَاحَسَ وَاتَّحَسَ فَلَانٌ: اوندھا گرا۔

عَامٌ نَاجِسٌ: خشک سال۔ مَنَ نَوَاجِسٍ.

النَّحْسُ: مَسَّ نَامِبَارِكُ - مَنَحَسٌ - کہا جاتا
ہے یَوْمَ نَحْسٍ وَأَيَّامٍ نَحْسٍ: نامبارک دن

مَنَ نَحْوَسٍ وَالنَّحْسُ: النَّحْسُ: مَشَقَّةٌ وَ
تَكْلِيفٌ - ایسا معاملہ جس کا کوئی حل نظر نہ

آئے۔ تَخْتَدِي بَجْوَائِي بَوَا - اطراف آسمان

میں گھومنا۔ النَّحْوَانُ: زلزل اور مرتع

السُّغْدَانُ: مشتری اور زہرہ -

النَّحْسُ: مہینہ کی انیسویں۔ انیسویں۔ اکیسویں
رات۔ جن کو ظلم بھی کہتے ہیں۔

النَّحْاسُ: بِنْتَلِثُ النَّوْنُ: تانبا۔ آگ۔

دھواں بغیر شعلہ کے۔ طبیعت۔ کہا جاتا ہے

"هُوَ كَرِيمٌ النَّحْاسُ" وہ فیاض طبیعت کا

ہے۔ ہر چیز کا اصل۔ چنگاری جو لوہے

وغیرہ کو کوئے وقت جھڑے۔

النَّحْاسُ: شَحِيرَا - تانبے کا کام کرنے والا۔

النَّحْاسُ جَسَّ: نَامِبَارِكُ وَنَحْوَسٌ بَجِيزِيں -

باعثِ نَحْوَسِ امُورٍ -

النَّحْاسَةُ: جلی ہوئی روٹی۔

نَحْصَتْ (ف) نَحْوُضًا النَّاقَةُ: اُونٹنی کا

بہت مونا ہونا۔ یا مونا کی وجہ سے حاملہ نہ

ہونا۔ عَصْفُ نَحْوُصٍ وَنَحِيسٍ. مَنَ نَحْصٍ
وَنَحَائِصٍ.

نَحِضُ (ف) نَحْضًا النَّعْمُ: گوشت

اتارنا۔ فَلَاتًا: اصرار سے سوال کرنا۔

العِظْمُ: ہڈی سے سب گوشت اتار لینا۔

السِّنَانُ: بھالائی کرنا۔ دُ الذَّهْرُ: نقصان
پہنچانا۔

نَحِضُ (ف) نَحْوُضًا وَنَحِضُ
وَأَنْتَحِضُ: ڈبلا ہونا۔ کم گوشت والا ہونا۔

عَصْفُ نَحِضٍ وَنَحْوُضٍ.

نَحِضُ (ك) نَحْصًا: مونا ہونا۔ زیادہ
گوشت والا ہونا۔ عَصْفُ نَحِضٍ
وَنَحْوُضٍ.

أَنْتَحِضُ الشَّيْءَ: بے معنی نَحِضُ الشَّيْءِ.

النَّحِضُ: مَسَّ - مونا گوشت۔ مَنَ نَحِضٍ
وَنَحْوُضٍ.

النَّحِضَةُ: گوشت یا مونے گوشت کا بڑا
ٹکڑا۔

نَحِطُ (ش) نَحِطًا وَنَحِيطًا
الْفَرْسُ: گھوڑے کا ٹھکن سے بہنا نا۔

نَحِيطًا: لیے لیے سانس لینا۔ (نَحِطًا)

السَّائِلُ: مانگنے والے کو سوال کے وقت
جھڑک دینا۔

النَّاحِطُ: نَا - سخت کھانسی والا۔

النَّحِطُ وَالنَّحِاطُ وَالنَّحِيطُ: سینے میں
رونے کی دہلی ہوئی آواز۔

النَّحِيطَةُ: اسمِ مَرَّةٍ - اُونٹ اور گھوڑوں کی

ایک بیماری جو سینے میں ہوتی ہے اور جس

سے بہت کم بچتے ہیں۔

النَّحِيطَةُ وَالنَّحِيطَةُ: مہینہ کی بیماری والا
اُونٹ یا گھوڑا۔

النَّحِاطُ: بھنگیہ۔ مفرور۔

نَحِيفُ (س) وَنَحِيفٌ (ك) نَحَافَةٌ: لاغر

ہونا یا خلیقہ: ڈبلا ہونا۔ عَصْفُ نَحِيفٍ مَنَ
نَحِيفُونَ وَنَحِيفٌ مَنَ نَحِيفًا وَنَحِيفٌ.

وَنَحِيفٌ وَنَحِيفٌ.

أَنْحَفُ: لاغر کرنا۔ ڈبلا کرنا۔

نَحَلُ (ف) نَحْلٌ (س) وَنَحْلٌ (س)

وَنَحْلٌ (ك) وَنَحْلًا: بیماری یا ٹھکن سے

ڈبلا ہونا۔

نَحَلُ (ف) نَحْلًا الرَّجُلُ: دینا۔ النَّمْرُ

سُةٌ: مہر دینا۔ اسمُ النَّحْلَةِ (نَحْلًا)

الْقَوْلُ: غلط بات منسوب کرنا۔ زَيْدًا: گالی
دینا۔ عَصْفُ النَّحْلِ: لاغر کرنا۔

نَحَلُ الشَّاعِرِ قَصِيدَةً: دوسرے کا قصیدہ
منسوب کیا جاتا۔

أَنْحَلَ وَنَحَلَ فَلَتَا مَاءٌ: دینا۔ عَصْفُ

هَذَا: دینے کے لئے خاص کرنا۔ أَنْحَلَهُ الْهَيْمُ
أَوْ الْمَوْضِعُ: ثم یا بیماری کا کسی کو لاغر کرنا۔

أَنْحَلَ وَنَحَلَ مَذْهَبٌ كَذَا أَوْ قَبِيلَةٌ
كَذَا: منسوب ہونا۔ أَنْحَلَ وَنَحَلَ الشَّعْرَ

أَوْ الْقَوْلَ: دوسرے کے شعر یا قول کو اپنی
طرف منسوب کرنا۔

النَّحْلُ: شہد کی کھیاں۔ واحد نَحْلَةٌ.

النَّحْلُ: لاغر و ڈبلا۔ عَطِيَّةٌ - بَشِشٌ - نیا چاند۔
کہا جاتا ہے "أَهْلَةُ النَّحْلِ".

النَّحْلُ وَالنَّحْلِيُّ وَالنَّحْلَانُ: عَطِيَّةٌ - ہبہ۔

النَّحْلَةُ وَالنَّحْلَةُ: عَطِيَّةٌ - ہبہ۔ عورت کو مہر

دینا۔ دعویٰ۔ مذہب۔ دین۔ مَنَ نَحَلَ

وَنَحَلَ کہا جاتا ہے "مَا سَخَطَكَ" یعنی
تمہارا دین کیا ہے۔

النَّحْلُ: النَّحْلَةُ: لاغری۔

النَّحِيلُ: نَا - باریک۔ کہا جاتا ہے "سَيْفٌ

نَاحِلٌ" یعنی باریک تلوار "وَجَسَلٌ

نَاحِلٌ" یعنی لاغراونٹ۔ مَنَ نَحْوَلٌ (جیسے
شاہد و مشہود)

النَّاحِلَةُ: النَّاحِلُ: کاموٹ۔ مَنَ نَوَاحِلِ.

النَّوَاحِلُ: وہ تلواریں جن کی دھاریں
کثرت استعمال سے تپلی ہوگئی ہوں۔

النَّحِيلُ: ڈبلا۔ مَنَ نَحْلِي.

نَحَمٌ (ش) نَحْمًا وَنَحِيمًا وَنَحْمَانًا
الرَّجُلُ: بھنگھا کرنا۔

الْأَسَدُ: شیر کا گونجنا۔

أَنْتَحَمَ عَلَيَّ كَذَا وَكَذَا: پختہ ارادہ کرنا۔

النَّحَامُ: سرخ رنگ اور لمبی گردن اور لمبی
چوٹی والی مرغابی۔ واحد نَحَامَةٌ.

النَّخْمَةُ: کھاسی۔

النَّحِيمُ: پیٹ کی گڑگڑاہٹ۔

رَجُلٌ نَحِيمٌ: پیٹ کی گڑگڑاہٹ والا مرد۔

النَّحَامُ: بہت پیٹ کی گڑگڑاہٹ والا۔ شیر۔ بنجیل۔

نَحْنُ: ہم۔ جمع متکلم کی ضمیر۔

نَحْنَحُ وَتَنْحَنُ الرَّجُلُ: گھا صاف کرنا۔

کھٹکھارنا۔ سینے سے آواز نکالنا۔ نَحْنَحُ

فَلَانًا: بری طرح سے ہٹانا۔ کہا جاتا ہے "فَا

أَنَا بِنَحْنَحِ النَّفْسِ عَنْ كَذَا" میرا جی اس

سے خوش نہیں۔

النَّحَائِحَةُ: بنجیل وکینے۔

نَحَا يَنْحُو نَحْوًا الشَّيْءُ: قصد کرنا۔ نَحَا نَحْو

فُلَانٍ: بیرونی کرنا۔ نَحَا بَصْرَةَ الْيَدِ: کسی کی

طرف نگاہ پھیرنا۔ السَّرْجُلُ: اپنی دو

جانبوں میں سے ایک جانب جھکا ہوا ہونا

..... فَلَانًا غَنَى: پھیرنا۔ ہٹانا

..... الشَّيْءُ: جھکانا۔

نَحَى نَحْيَةَ الرَّجُلِ عَنْ مَوْضِعِهِ: ہٹانا۔

مہزول کرنا۔ علیحدہ کرنا۔

نَحَاةً مَنَاحَاةً: باہم ایک دوسرے کی جانب

ہونا۔

النَّحَى انْحَاءً: اعتماد کرنا۔ کسی جانب جھکانا

..... عَلَى فُلَانٍ ضَرْبًا: متوجہ ہونا۔ بَصْرَةَ

غَنَى: نگاہ پھیر لینا۔ غَلِيَةً: اعتماد کرنا۔

النَّحَى انْتِخَاءً الشَّيْءِ او الرَّجُلِ: قصد کرنا

..... لَدَى: اعتماد کرنا اور جھکانا۔ التَّبَعِيرُ: غلی

بِشِقَةِ الْاَيْسَرِ: اونٹ کا بائیں جانب جھکانا۔

نَحَى عَنْ مَوْضِعِهِ: جدا ہونا۔

لِلشَّيْءِ: اعتماد کرنا۔ السَّرْجُلُ: کلام میں

اعراب استعمال کرنا۔

النَّحْوُ: جانب۔ جہت۔ راستہ۔ مثل۔

مقدار۔ قصد و ارادہ اور بطور ظرف و اسم

مستعمل ہوتا ہے نَحْوُ انْحَاءٍ وَعِلْمٌ

النَّحْوُ: وہ علم جس میں کلمات عرب کے

احوال مثل اعراب دینا و ترکیب و افراد سے

بحث کی جائے اور اس علم کا نام علم نحو اس وجہ

سے ہے کہ متکلم عرب کے طریقے پر چلتا

ہے۔ نَحْوُ انْحَاءٍ وَنَحْوُ اور تَغْيِيرُ نَحْيَةٍ

يَسِيْرٌ دَلْوٌ وَذَلِيَّةٌ۔

النَّحْوِيُّ: علم نحو کا جاننے والا۔ نَحْوِيُوْنُ:

النَّاحِيُّ: فا۔ علم نحو کا جاننے والا۔ نَحْوَةُ:

النَّاحِيَةُ: جانب و جہت۔ نَحْوَانِيَاتُ

وَنَوَاحٍ وَانْحِيَةٌ۔

نَحَى يَنْحِي وَيَنْحِي نَحْيًا. اللَّبَنُ: دودھ

ہلونا۔ مٹنا۔ مسکنا۔ الشَّيْءُ: زائل کرنا

..... بَصْرَةَ الْيَدِ: نگاہ پھیرنا۔

نَحَاةً يَنْحِيهِ نَحْيًا: ایک گوشہ میں کرنا۔

أَنْحَى لَدَى السَّلَاحِ: ہتھیار سے مارنا۔

عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ: تلوار کے ساتھ متوجہ ہونا۔

کہا جاتا ہے "أَنْحَى عَلَيْهِ بِالْوَأْتِمِ" وہ اس

پر ملامت کے ساتھ متوجہ ہوا۔

نَحَاةً تَنْحِيَةً: زائل کرنا۔ جھکانا۔

تَنْحَى تَنْحِيًا: زائل ہونا۔ جھکانا۔

النَّحَى فِي الْأَمْرِ: کوشش کرنا۔ فِئِي

الشَّيْءِ: اعتماد کرنا۔

النَّحَى وَالنَّحَى وَالنَّحَى: جھکی کی مشق۔

دودھ ہلوانے کا برتن۔ چوڑے پھل کا تیر۔

نَحْوُ انْحَاءٍ وَنَحْوُ وَنَحْيٍ۔

النَّحْيَةُ: ارادہ۔ نشانہ۔ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ

نَحْيَةٌ الشَّدَائِدُ" فلاں سختیوں کا نشانہ ہے۔

النَّحَاةُ: پانی بہنے کی پتھ دار جگہ۔ پانی لانے

والے اونٹ کا راستہ۔ نَحْوُ مَنَاحٍ: أَهْلُ

النَّحَاةِ: بیگانے لوگ۔

نَحَى (ن) نَحَا: تیز چلنا۔ الإِبِلُ: اونٹ کو

تیز ہانکنا۔ الإِبِلُ وَبِالإِبِلِ: اونٹ بٹھانے

کے لئے اِخْ يَنْحِي نَحْيًا۔

النَّحَى: مہم۔ لہذا فرس۔ نَحْوُ انْحَاخٍ۔

النَّحْيَةُ: اسم مرۃ۔ ہلکی بارش۔ کام کرنے

والے تیل۔ ہانڈی غلام۔ خبر جس کا بیج یا

جھوت معلوم نہ ہو۔

النَّحْيَةُ: کام کرنے والے تیل۔

النَّحَى وَالنَّحَاةُ: گودا۔ مغز۔

نَحْبٌ (ن) نَحْبًا الشَّيْءُ: کھینچنا۔ عمدہ حصہ

لینا۔ نَحْبَتِ النَّمْلَةُ: چوٹی کا کاٹنا۔

النَّصْرُ الضَّيْفُ: باز کا شکار کے دل کو نکال

لینا۔

نَحْبٌ (س) نَحْبًا: بزدل ہونا۔ صفت

نَحْبٌ وَنَحْبٌ وَنَحْبٌ وَنَحْبٌ وَنَحْبٌ۔

أَنْحَبَ الرَّجُلُ: بزدل بچہ پیدا کرنا۔ بہادر

بچہ پیدا کرنا۔

إِنْحَبَ الشَّيْءُ: کھینچ کر نکالنا۔ چننا۔

النَّحْبُ: مہم۔ بزدلی۔ دل کی کمزوری۔

بزدل۔ جامِ صحت اور عوام کہتے ہیں "شَرْبُ

بِسْرَةٍ او عَلَي صَحْبِهِ"۔

وَالنَّحْبَةُ: ذر۔ النَّحْبَةُ: بزدل۔

النَّحْبَةُ وَالنَّحْبَةُ: چننا ہونا۔ نَحْوُ نَحْبٍ:

النَّحْبَةُ: منتخب لوگ۔ دوست کے جامِ صحت کا

چننا۔ پلانا۔ نَحْوُ نَحْبَاتٍ. النَّحْبَاتُ: بزدل

لوگ۔

النَّحْبُ: نَحْوُ نَحْبٍ وَالْمَنْحُوبُ

وَالْيَنْحُوبُ: بزدل۔ بے دل۔

النَّحْبُ: ڈیلا کم گوشت والا

وَالْيَنْحُوبُ: لمبا۔

النَّحْبُ: دل کی کھلی۔

النَّحْبَةُ: حلقہ دہر۔

الْمِنْخَابُ: کمزور۔ نا کارہ۔ نَحْوُ مَنَاحِيْبٍ:

نَحْبٌ (ن) نَحْبًا الشَّيْءِ: پزندہ کا

چونچ مارنا۔ النُّقُولُ: امتحان تک پہنچانا۔

النَّحْوُ: درخت کو جڑ سے اکھیرنا۔

نَحْوُ (ش) نَحْوًا الشَّيْءِ فِي سِنْدِ

السَّوَادِي: سیلاب کا وادی کے بلند کناروں

سے ٹکرانا الدَّلْوُ وَبِالدَّلْوِ فِي الْبَيْتِ: ڈول کو

بھر جانے کے لئے کنوئیں میں بلانا۔

النَّحْوَةُ: جماع کرنا۔

النَّحْوَةُ الشَّيْءِ: جھکی جو مشق سے رسی کر

نکلے۔

نَحْوًا: ناخدا ہونا۔ جہاز کا کپتان ہونا۔

نَحْوًا: جہاز کا کپتان۔ نَحْوُ نَوَاحِدَةٍ:

نَحْوُ (ش ن) نَحْوًا وَنَحْيًا الْإِنْسَانُ او

الذابئة: خرائے لینا۔

نَحْر (ف) نَحْرًا النَّاقَةَ: دو بٹے کے لئے نتھنوں میں انگلی ڈال کر کھیلانا۔

نَحْر (س) نَحْرًا الْعُودَ او الْعِظْمَ وَنَحْوَهُ: ککڑی یا بڈی کا بوسیدہ ہونا۔ ریزہ ریزہ ہونا۔ صفت نَاجِرَةٌ وَنَجْرٌ۔

نَحْرَةٌ: بوسیدہ کرنا۔ کُفِّتْكَو کرنا۔

النَّحْرَةُ مِنَ الرَّيْحِ: ہوا کا تیز بہاؤ (.....) والنَّحْرَةُ: ناک کا گلا حصہ۔ ج نَحْرٌ۔

النَّاجِرُ: فَا۔ بوسیدہ۔ ریزہ ریزہ حملہ کرنے والا سور۔ گدھا اور بقول بعض گھوڑا۔ ج نَحْرٌ: کہا جاتا ہے "صَابِلُ الدَّارِ النَّاجِرُ" گھر میں کوئی نہیں۔

النَّاسِجْرَةُ: النَّاسِجِرُ: کاموٹ۔ بوسیدہ بڈیاں۔ گھوڑے یا گدھے۔

النَّشَارُ: بہت خرائے لینے والا۔

النَّخْوَارُ: بزدل۔ کمزور۔ شریف۔ مغرور ج نَخَاوَرَةٌ۔

النَّمْنَمِرُ وَالنَّمْنَمِرُ وَالنَّمْنَمِرُ وَالنَّمْنَمِرُ وَالنَّمْنَمِرُ وَالنَّمْنَمِرُ: ناک۔ تھتا۔ ج مَنَاجِرٌ وَمَنَاجِيرٌ۔

النَّخْوَرُ: اونٹنی کہ جب تک نتھنوں میں انگلی ڈال کر نہ کھیلنا میں دودھ نہ دے۔

النَّخْوَرِيُّ: چوڑے منہ والا۔ بڑے پیٹ والا۔

النَّمْرَةُ مَنَخَارٌ: وہ عورت جو جماع کے وقت بہت خرائے لے گویا دیوانی ہے۔

النَّخْرِبُ الشَّجَرَةِ: درخت میں سوراخ کرنا۔

النَّخْرُوبُ: سوراخ۔ پتھر کا شکاف۔ ج نَخَارِيْبٌ: نَخَارِيْبُ النَّخْلِ: شہد کے چپتے کے خانے۔

نَخْرَةٌ (ف) نَخْرًا بِالْحَدِيدَةِ: مارنا..... ہ بکلمتہ: تکلیف پہنچانا۔

نَحْصٌ (ف ن) نَحْصًا الذَّابَّةَ: جانور کے پہلو یا پیچھے حصہ پر ککڑی وغیرہ چھو کر اگسانا

بِسْفَلَانٍ مَجْرًا: برا بیچنے کرنا.....

البكورة: چرخی میں پھر لگانا۔

نَحْصٌ لَحْمُهُ: کم ہونا..... البَعِيرُ: اونٹ کی دم کے قریب خارش ہونا۔ صفت مَنَحْوَسٌ۔

تَنَاحَسَتِ الْغَنَمُ: بھیڑ بکری کا سردی کی وجہ سے ایک دوسرے سے گرمی حاصل کرنا۔

الغُدْرَانُ: تالابوں کا ایک دوسرے میں پانی پہنچانا۔

النَّاحِسُ: فَاوِثٌ كِي وَدَمٌ كِي قَرِيْبٌ خَارِشٌ (.....) وَالنَّحْوَسُ: جوان پہاڑی بکرا۔

النَّحْيِسُ: چرخی کہ اس کا سوراخ چوڑا ہو گیا ہو تو پھر لگا کر تنگ کر دیا جائے۔

النَّحْيِسَةُ: بھیڑ بکری کا ملا ہوا دودھ۔ مکھن۔

النَّحْضَاثُ: چرخی کے سوراخ کو تنگ کرنے کا پتھر۔ نِخَاثَةُ النَّبْتِ: گھریا خیمہ کے ستون۔

النَّحْضَاثَةُ: بمعنی نَحْضَاثٌ (.....) وَالنَّحْضَاثَةُ: غلاموں یا جانوروں کی بیچ۔

النَّحْضَاثُ: بہت چھوٹے والا۔ غلاموں اور جانوروں کی تجارت کرنے والا۔

النَّمْنَمِسُ: آئکس۔ ممییز۔ ج مَنَاحِصٌ کہا جاتا ہے "هُوَ اَبْسٌ نِخْسِيَّةٌ" وہ حرامی بچہ ہے۔

نَحْشُهُ (ن) نَحْشًا: برا بیچنے کرنا۔ تکلیف دینا..... الشَّشِي: حرکت دینا.....

الذَّابَّةُ: جانور کو تیز بانگنا..... الْعُودُ: ککڑی چھیلانا۔

نَحْشٌ (ف) نَحْشًا وَنَحْشٌ: دبلا ہونا۔

نَحْشٌ (س) نَحْشًا الشَّيْءُ: کسی چیز کا نچلا حصہ بوسیدہ ہونا۔

النَّحْشُ اِلَى كَذَا: حرکت کرنا۔

تَنَحَّشٌ: مص۔ مال کا ایک ٹکڑا۔

نَحْصٌ (ف ن) نَحْصًا الرَّجُلُ: لاغر ہونا۔ جھریوں والا ہونا۔

نَحْصَةٌ وَنَحْصَةٌ الْكَبِيرُ او الْمُرْضُ: لاغر کرنا۔ جھریوں والا ہونا۔

نَحْصٌ (س) نَحْصًا وَانْتَحَصَ لَحْمُهُ: کم گوشت ہونا۔

عَجْوَزٌ نَاحِصٌ: جھریوں والی بڑھیا۔

نَحْطٌ (ن) نَحْطًا إِلَيْهِمْ: اچانک آنا۔

النَّمْحَاطُ مِنَ أَنْفِهِ: ناک سے ریٹ صاف کرنا۔

نَحْطٌ (ن) نَحْطًا لِفُلَانٍ: گالی دینا۔ عیب ظاہر کرنا..... عَلَيْهِ: تکبر کرنا۔

انْتَحَطَهُ: مشابہ ہونا۔ انْتَحَطَ الْمُنْحَاطُ مِنَ أَنْفِهِ: ناک صاف کرنا۔

النَّحْطُ وَالنَّمْحُ: لوگ کہا جاتا ہے "مَا أَذْرَى أَيْ النَّحْطُ هُوَ" میں نہیں جانتا کہ وہ کون آدمی ہے۔

النَّمْحُ: حرام مغز۔ بچدانی کی جھلی کا پانی۔

النَّمْحُ: بہادری کی وجہ سے نیزہ سے کھینچنے والے لوگ۔

نَخَعٌ (ف) نَخَعًا الذَّبِيْحَةَ: ذبح کرنے میں چھری کو حرام مغز تک پہنچانا..... الْأَمْرُ عَلَيْنَا: اچھی طرح سے آگاہ ہونا.....

الطَّاعَةُ او النَّصِيْحَةُ: فرمانبرداری یا نصیحت یا خالص طریقے سے کرنا..... الرَّجُلُ: سینے یا ناک سے کسی چیز کو گرائنا (.....) نَحْوُغًا: لہ

بِخَفِيَةٍ: اقرار کرنا۔

نَجَعٌ (س) نَجَعًا الْعُودَ او النَّبَاتَ: ککڑی یا نباتات سے پانی اٹھانا.....

بِخَفِيَةٍ: اقرار کرنا۔

تَنَجَعُ الرَّجُلُ: کھٹکھارنا (.....) انْتَجَعُ الشَّحَابُ: سارا پانی برسادینا۔ وانْتَجَعُ الرَّجُلُ عَنِ أَرْضِهِ: دور ہونا۔

النَّمْحَاعُ: بستلیت النون: حرام مغز۔ ج نَخَعٌ۔

النَّمْحَاعَةُ: کھٹکھار۔ بغم۔

النَّمْحُوعُ: مص۔ حق کا اقرار۔

الانْتَجَعُ: اسم تفضیل۔ بمعنی اُذِلُّ واَقْبَرُ۔ بہت زیادہ ہلاک کرنے والا۔

النَّمْحُوعُ: گردن اور سر کا اندرونی جوڑ۔ حرام مغز کھنے کی جگہ۔

نَخَفٌ (ف ن) نَخْفًا وَنَخْفًا: چھینکے ہوئے آواز نکالنا (اور یہ بکری کے لئے خاص ہے)

انصاف: چھینکتے ہوئے بہت آواز نکالنا۔

النخفة: پہاڑ کی چوٹی میں پست زمین۔

النخاف: چرمی موزہ۔ ج انخفة۔

نخل (ن) نخلًا الدقیقی: آنا چھاننا۔

بھوسی دور کرنا..... الشئی: چٹنا۔ صاف

کرنا۔ النسخة أو المؤذ لفلان: بچی خیر

خوابی یا خالص دوستی کرنا۔ (.....) ونسخل

السحاب التلج: بادل کا پتھر برساتا۔ برف

گراتا۔

تنسحل وانسحل الشئی: چٹنا۔ عمدہ لینا۔

النسحل والنسحیل: مجبور کا درخت۔ واحد

نخلة ونخيلة۔

النسحلیات: ایک ستے والے درخت جس کی

شاخیں نہ ہوں۔

النخالة: بھوسی جو چھلتی میں رہ جائے۔ قلد جو

چھاتا جائے۔

النسخيلة: طبیعت۔ خالص خیر خواہی۔ ج

نخالل کہا جاتا ہے "لا یقبل اللہ الا"

نخالل القلوب" اللہ تعالیٰ صرف خالص

نیئوں کو قبول فرماتے ہیں۔

النساجل: نا۔ کہا جاتا ہے "لنہ نساجل"

النسجر" وہ خیر خواہ ہے و "نسخة"

ناخلة" بچی خیر خواہی۔

النسجال: بہت مجبور کے درختوں والا۔ آنا

چھاننے والا۔

النسحل والنسحیل: چھلتی۔ ج مناجل۔

نختم (ن) نخمًا نخمًا: عمدہ گانا۔ صفت

ناخیم۔

نختم (س) نخمًا ونخمًا ونتمخم:

کھنکھارنا۔ تاک صاف کرنا۔

نختم (س) نخمًا الرجُل: جھکنا۔

النخافة: کھنکار۔ ریخت۔ لغم۔

النخمة: اسم مرؤة۔ کھنکھار۔ ریخت۔

خوبصورتی و زیبائی۔ بہادری۔ طمانچہ۔

نسخنخ البعیر: اونٹ کو بھٹانا..... نسخنخ

فلانًا: ڈانٹنا۔ بٹانا۔ نسخنخ الرجُل: تیز

چلنا۔ نسخنخ بالاہل اخ اخ: کہہ کر ڈانٹنا

کہ بیٹھ جائے۔

تنسخنخ البعیر: اونٹ کا بیٹھنا۔

نخا ینخو نخوة الرجُل: تعریف کرنا۔

نخبی نخوة الرجُل: فخر کرنا۔ بڑا بننا۔

أنخی انخاء: کبر و غرور زیادہ ہونا۔

إنسخی انخاء علینا: بڑا بننا۔ تکبر کرنا.....

من کذا: تنگ جانا۔

النسخوة: مص۔ دلیری۔ مروت۔ بڑائی۔

کبر و غرور۔ فخر۔

نذ (ض) نذًا ونذیدًا ونذوذًا ونذاذًا

البعیر: اونٹ کا بدک کر بھاگ جانا۔ کہا جاتا

ہے نذت الکلمة: شاذ ہونا۔ کم مستعمل

ہونا۔

نذذ الابل: اونٹوں کو متفرق کرنا.....

بالشئی: بدنام کرنا..... بفلان: محبوب ظاہر

کرنا۔ نذذ بات شانًا..... ضوتہ: آواز بلند

کرنا۔

انذ الابل: اونٹوں کو متفرق کرنا۔

ناذة مناذة: مخالفت کرنا۔

تناد القوم: باہم مخالفت کرنا۔ ایک دوسرے

سے بدکنا۔ متفرق ہونا۔ فنناذت

الابل: اونٹوں کا بدک کر بھاگ جانا۔

الناذ: نا اور کہا جاتا ہے "لئس لہم ناذ" ان

کے لئے رزق نہیں۔ ج نذاد۔

النذ: نل۔ بلند پشت۔

النذ: نل۔ کہا جاتا ہے "قالہ نذ" اس کی

کوئی نظیر نہیں۔ ج انذاد۔

النذید: مثل ونظیر۔ ج نذذاء مؤنث

نذیلة ج نذانذہ کہا جاتا ہے سالہ

نذید: اس کی کوئی نظیر نہیں۔

التناد: مص "یوم التناد ویوم التناد" وال

کی تخفیف کے ساتھ یعنی یوم قیامت۔ کہا

جاتا ہے "ذہبوا آناذید و تنادید" وہ لوگ

ہر طرف پراگندہ ہو گئے۔

نذاء (ف) نذًا: خوف دلانا۔ نذًا

اللخیم: گوشت کو آگ میں دہانا..... المنة:

بجو بھل بنانا..... علیہم: ظاہر ہونا۔ سامنے

آنا۔

النذی: آگ میں دہایا ہوا گوشت۔

النذی والنذاة والنذاة: آفتاب کے طلوع

وغروب کے وقت بادلوں کی سرخی۔ قوس

قزح۔ النذاة والنذاة: آفتاب کا دائرہ۔

چاند کا ہالہ۔ مال موشیوں کی زیادتی و

بہتات۔

النذاة والنذاة: متفرق بھاس کا ایک حصہ

ج نذاة۔

نذب (ن) نذبًا المیت: میت پر رونا۔

میت کی خوبیاں شمار کرنا..... فلانًا الی الامر

او للامر: بلانا۔ برا بھینٹ کرنا۔ العسی

انحزب: لڑائی کی جانب متوجہ کرنا۔ صفت

فاعلی نادب صفت مفعولی منذوب اور امر کو

منذوب الیہ کہتے ہیں اور اسم النذبة۔

نذب (س) نذبًا ونذوبًا ونذوبۃ الظہیر:

پینہ پر زخم کا نشان ہونا۔ صفت نذب

(.....) نذبًا وانذب) الجرح: نشان زخم ت

ہونا۔ انذب فلان نفسه وبنفسه: خطرے

میں ڈالنا۔ انذب الجرح فلانًا: نشان

ڈالنا..... بظہیره وفسی ظہیره: نشان

چھوڑنا۔

نذب (ک) نذابة الرجُل: زریک ہونا۔

بوشیارو چست ہونا۔

انذب لفلان: تردید کرنا۔ کہا جاتا ہے

"نکلم فلانذب لہ فلان" اس نے گفتگو کی

اور فلان نے اس کی تردید کی۔ انذبہ

لائسر: بلاوے پر جواب دینا اور کہتے ہیں

"نخذنا انذب" یعنی اوجو آسان ہو۔

النذب: مص۔ فضائل کی طرف سبقت

کرنے والا۔ شریف دانا۔ مرد کم حاجت۔

ج نذوب ونذباء۔ فرس مذب: تیز

گھوڑا۔

النذب: مص۔ نشان زخم۔ ج نذوب: جھوڑ

دوڑ یا تیز بازی کی شرط کہ جو غالب ہونے

لے۔ تیز تیز بھینٹنے والی کمان۔ کہا جاتا ہے

"زمینا نذبنا" یعنی تیز تیز بھینٹنے والی کمان

چلائی۔ ج اذاب۔

النَّدْبَةُ: اسم مرءة۔ مؤنث النَّدْب (.....)
والنَّدْبَةُ: نشان زخم جو جسم پر باقی رہ جائے۔
ج نَدْبٌ ج نَدَوْبٌ وَاذَابٌ۔

النَّدْبَةُ: میت کے محاسن وفضائل بیان کرنا
اور کہا جاتا ہے کہ "عَرَبِيٌّ نَّدْبَةٌ" یعنی فصیح
عربی۔

المندب: میت پر رونا۔ ج مندوب۔

المندبى: مردم حاجت۔

نَدْحٌ (ف) نَدْحًا الشَّىءُ: کشادہ کرنا۔

نَادِحَةٌ: کسی سے کسی چیز کے زیادہ ہونے میں
مقابلہ کرنا۔

تَنَدَّحَتْ وَانْتَدَّحَتْ الْعَنَمُ فِي مَرَابِضِهَا أَوْ
مَسَارِحِهَا: بکریوں کا بیٹھنے کی جگہ یا چراگاہ
میں منتشر ہونا۔ متفرق ہونا۔
وَتَنَدَّحَتْ بُرْدِيَّ عِلْمٍ سَ بَهِوْلَانَا۔

النَّدْحُ وَالنَّدْحُ: کشادگی۔ کثرت۔ پہاڑ کا
کنارہ جو تہما رہے مقابل ہو۔ ج اَنْدَاحٌ۔

النَّدْحُ وَالنَّدْحُ وَالنَّدْحَةُ وَالنَّدْحَةُ: کشادہ
زمین۔

الْبَدْحُ: بوجھ۔ چیز جس کو تم دور سے دیکھو۔
الْمَنْدُوحَةُ وَالْمَنْدُوحُ: کشادگی۔ گنجائش۔

کہا جاتا ہے "لَكَ عَنِ هَذَا الْأَمْرِ
مَنْدُوحَةٌ أَوْ مَنْدُوحٌ" تم کو اس کام میں

آزادی ہے اور تم کو اس کا چھوڑنا ممکن ہے

"وَلَكِ مَنْدُوحٌ لِي الْبِلَادِ" تمہارے لئے
ملکوں میں گنجائش ہے اَرْضٌ

مَنْدُوحَةٌ: دور کی کشادہ زمین۔
الْمَنْدَاحُ: دور کی کشادہ زمین۔

نَدْحَةٌ (ف) نَدْحًا: کھڑا دینا۔ سمندر کا
مسافر کہتا ہے "أَنْدَحْنَا الْمَرْكَبَ سَاحِلَ
كَلْبٍ" ہم نے جہاز کو فلاح ساحل سے کھرا

دیا۔

تَنَدَّحَ الرَّجُلُ: بڑباکنا۔

الْأَنْدَحُ: بے وقوف بھی کم ہونے والا۔

الْمَنْدُوحُ: بری بات کہنے اور سننے میں

الپر واد۔

نَدْرٌ (ن) نَدْرًا وَنَدْرُؤًا. الشَّىءُ: نادر

ہونا۔ کسی چیز میں سے گر کر نمایاں ہونا.....

مِنْ مَوْضِعِهِ: زائل ہونا..... فَلَانٌ مِنْ
قَوْمِهِ: نکل جانا..... الشَّجَرَةُ: پیتاں ٹھکانا یا

سبز ہونا..... الشَّيْءُ: تجزیہ کرنا.....
النَّبَاتُ: پتوں والی ہونا..... الرَّجُلُ: مرنا

..... الرَّجُلُ فِي فَضْلِ أَوْ عِلْمٍ: فضیلت یا
علم میں بڑھ جانا۔

نَدْرٌ (ك) نَدْرَةٌ الْكَلَامُ: فصیح ہونا۔ عمدہ
ہونا۔ عجیب و غریب ہونا۔

أَنْدَرُ: نادر قول یا فعل کرنا..... الشَّىءُ: گرانا
..... الْعَظْمُ: جگہ سے ہٹانا۔

تَنَادَرُ عَلَيْنَا: نوادر بیان کرنا۔ وَتَنَادَرُوا
الشَّىءُ: گرانا۔

إِسْتَنْدَرَهُ: نادر سمجھنا..... الْقَوْمُ الْفَرَّةُ: پیچھے
جانا۔

النَدْرُ: نادر۔ کہا جاتا ہے "شَيْءٌ نَدْرٌ" نادر
چیز یہ وصف بالمصدر ہے۔

النَّدْرَةُ: چاندی یا سونے کا ٹکڑا جو کان میں
پایا جائے (..... وَالنَّدْرَةُ: کمی۔ کمیابی۔ کہا

جاتا ہے "لَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا نَدْرَةٌ وَهِيَ
النَّدْرَةُ" یعنی یہ بہت کم ہے۔

النَّادِرُ: نادر..... مِنَ الْكَلِمِ: کمیابی۔ شاذ و
مخالف قیاس..... مِنَ الْجَبَلِ: پہاڑ کا ٹکڑا ہوا

حصہ۔

النَّادِرَةُ: النَّادِرُ: کامؤنث۔ ج نوادر۔
نَوَادِرُ الْكَلَامِ: عجیب کلام۔ شاذ۔ فصیح و عمدہ

اور کہا جاتا ہے "هُوَ نَادِرَةُ الرُّمَانِ" وہ
یکٹائے زمانہ ہے۔

النَدْرِيُّ: نادر کیاب اور اسی سے ہے جو کہا
جاتا ہے "الْقَيْسَةُ نَدْرِيٌّ وَهِيَ نَدْرِيٌّ

وَالنَدْرِيُّ وَهِيَ النَدْرِيُّ" یعنی میں نے اس
سے گاہے ماہے ملاقات کی۔

الْأَنْدَرُ: تپوں کا کھلیان۔ کھلیان۔ ج
انادر۔

الْأَنْدَرِيُّ: موٹی سی۔

نَدَسَةٌ (ن) نَدَسًا بِالرُّمُوحِ: نیزہ مارنا۔

..... هُ بِسَكْلِمَةٍ: کسی کے متعلق کوئی کلمہ کہہ

دینا۔ نَدَسٌ بِهِ الْأَرْضُ: زمین پر پتک دینا

..... هُ عَنِ الطَّرِيقِ: راستہ سے ہٹانا.....
عَلَيْهِ الظَّنُّ: بدگمانی کرنا..... الْأَرْضُ

بِوَجْهِهِ: زمین پر پاؤں پٹکانا۔
نَدَسٌ (س) نَدَسًا الْغَلَامُ: سمجھدار و زیرک

ہونا۔ صفت نَدَسٌ وَنَدِسٌ وَنَدَسٌ.
نَادَسَةٌ: ایک دوسرے کو نیزہ مارنا۔

تَنَدَسٌ: گر پڑنا۔ چھڑنا۔ کہا جاتا ہے "نَدَسٌ
بِهِ الْأَرْضُ فَتَنَدَسُ" اس نے اس کو زمین پر

پتک دیا اور وہ گر گیا..... مَاءُ الْبُسْرِ: کونئیں
کے پانی کا بہنا..... الرَّجُلُ الْأَخْبَارُ وَعَنِ

الْأَخْبَارِ: خبروں کی جستجو کرنا تاکہ دوسروں
سے مخفی خبر معلوم ہو جائے۔

تَنَادَسَ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو نرا بھلا کہنا۔
النَدَسُ: مہم۔ پست آواز۔ پست آواز کو

تیز سننے والا۔ سمجھدار۔
النَدَسُ: سمجھ و زیرکی۔

رَمَّاحٌ نَوَادِسُ: لگنے والے نیزے۔ زخم
کرنے والے نیزے۔

الْمِنْدَاسُ مِنَ النِّسَاءِ: بلی بھلی سمجھدار
عورت۔

الْمَنْدُوسَةُ: گھبریلہ۔
نَدَسٌ (ض) نَدَسًا وَنَدَسًا عَنِ

الشَّىءِ: کھو کر یاد کرنا..... الْمَقْطُنُ: روٹی
دھنا۔

نَدَصٌ (ن) نَدَصًا وَنَدَوَصًا الشَّىءُ مِنْ
الشَّىءِ: نکل جانا..... الرَّجُلُ: جلدی سے ٹھکانا

..... عَلَى الْقَوْمِ: بکروہ چیز کے ساتھ ظاہر
ہونا..... الْقَوْمُ: لوگوں کے ساتھ شرارت

کرنا (..... نَدَوَصًا) غِنِيَةٌ: گھاگھونٹے
ہونے کی مانند آنکھیں باہر کونکل پڑنا۔

نَدَصْتُ (س) نَدَصًا الْبُشْرَةَ: پھنسی سے
دبانے کی وجہ سے خون ٹھکانا۔

أَنْدَصُ وَأَسْتَنْدَصُ حَقَّةً مِنْ فَلَانٍ: حق
وصول کرنا۔ حاصل کرنا۔

الْمِنْدَاصُ: قوم کے ساتھ ہمیشہ بری و

السَّهْدَةُ والسَّهْدَةُ: بہت موٹیں۔ السَّهْدَةُ:
آواز۔ النَوَادِي: وحکیاں۔
نَدَا يَنْدُو نَدْوًا القَوْمُ: جمع ہونا اور مجلس میں
حاضر ہونا۔ القَوْمُ: مجلس میں جمع کرنا۔ کہا
جاتا ہے "نَسَا يَنْدُوهُمْ النَّادِي" مجلس میں ان
کے لئے مہنگائی نہیں..... الرَّجُلُ: بخشش
کرنا۔ جدا ہونا..... الشَّيْءُ: متفرق ہونا۔
نَدَى يَنْدِي نَدًى وَنَدَاوَةٌ وَنَدْوَةٌ الشَّيْءُ: تر
ہونا..... الْأَرْضُ: تری پہنچنا..... الصَّوْتُ:
دور کی ہونا اور کہا جاتا تھا نَدَيْتُ بَشِي مِنْ
فُلَانٍ: میں نے فلاں سے کچھ حاصل نہیں
کیا۔ "وَمَنْ يَنْدِي بَصْرِي فَلَمْ يَنْدِ بِلِي"
شئی" میں نے نگاہ ڈالی میرے لئے کوئی چیز
متحرک نہیں ہوئی "وَمَا نَدَيْتُ مِنْ فُلَانٍ
شَيْءًا أَحْرَه" فلاں سے مجھ کو ایسی چیز نہیں
پہنچی جس کو میں ناپسند کرتا ہوں "وَلَمْ يَنْدِ
بِهِمْ نَادٍ" یعنی ان میں سے کوئی باقی نہیں
رہا۔
نَدَى تَنْدِي الشَّيْءُ: تر کرنا..... الفَرْسُ:
گھوڑے کو پلانا۔ پسند آنے تک دوڑانا۔
نَادَى مُنَادَاةً وَنَدَاءَ الرَّجُلِ
وَبِالرَّجُلِ: پکارنا..... فُلَانًا: مجلس میں ہم
نہیں ہونا۔ مفاخرت کرنا۔ نَادَى
بِسَبِّهِ: بھیدنا ہر کرنا..... الشَّيْءُ: دیکھنا اور
جاننا..... فُلَانًا: مشورہ کرنا.....
النَّبْتُ: نباتات کا ظاہر ہونا اور مہجان ہونا۔
کہا جاتا ہے "نَادَى الطَّرِيقُ لِفُلَانٍ وَ
نَادَاهُ" یعنی فلاں کے لئے راستہ ظاہر ہو گیا۔
أَنْدَى إِنْدَاءَ الرَّجُلِ: بہت داد و دہش والا
ہونا۔ سخی ہونا۔ صاحب فضل ہونا.....
الشَّيْءُ: تر کرنا..... الكلامُ: پیدائشی کے
خوف سے کہنے والے یا سننے والے کو پسند
لانا۔
تَنْدَى الرَّجُلُ: سخی ہونا۔ مہربان ہونا۔
سیراب ہونا۔ کہا جاتا ہے "فَسَرَبَ حَسِي
تَنْدَى" اس نے پیاسیہاں تک کہ سیراب ہو
گیا..... الْمَكَانُ: گیلیا ہونا۔

سے ڈھول کھینچنا..... بِسَلْجِهِ: پانچا نہ کرنا۔
نَدَيْتُ (س) نَدْلًا يَدُهُ: ہاتھ کا میلا کچھ
ہونا۔
تَسَدَّلُ وَتَسَدَّلُ: بالبندييل: رومال سے
پونچھنا۔ سر پر رومال لپیٹنا۔
إِسْتَدَلَ الْمَالَ: برداشت کرنا۔
النَّدَلُ: مص۔ میل کچل۔
النَّدَلُ: کھانا کھانے والے خدام۔
الْمَنْدَلُ: چرمی موڑہ۔ عود۔ ج مَنَادِلُ.
الْمَنْدَلُ وَالْمَنْدِيلُ وَالْمَنْدِيلُ: رومال۔ ج
مَنَادِلُ وَمَنَادِيلُ. الْمَنْدَلُ: اچک لینے
والا۔ وہ شخص جو دونوں ہاتھوں سے چلو
لے۔
النَّوْدَلُ: پستان۔
نَدِمَ (س) نَدَمًا وَنَدَامَةً وَتَدَمَّ عَلَى مَا
فَعَلَ: پشیمان کرنا۔
أَنْدَمَهُ: پشیمان کرنا۔
نَادَمَهُ نِدَامًا وَنَادَمَةً عَلَى الشَّرَابِ: ہم
نہیں ہونا۔
تَنَادَمَ القَوْمُ عَلَى الشَّرَابِ: ہم نشینی کرنا۔
إِسْتَدَمَ الْأَمْرُ: آسان ہونا۔ کہا جاتا ہے
"أَخْلَعْنَا إِسْتَدَمَ" اور آسان ہو۔
النَّدَامُ: پشیمان۔ شرمندہ۔ ج نَادِمُونَ
وَنَدَامٌ.
النَّدَمَانُ: پشیمان و شرمندہ۔ ج نَدَامِي
وَنَدَمَانٌ (مثل مَفْرُوحٌ) مَوْنَتُ نَدَمَانَةٍ
وَنَدَمِي. النَّدَمَانُ: مجلس شراب کا ہم نشین۔
النَّدَمُ: تیز طبیعت۔ زیرک۔
النَّدَمُ: مص۔ نشان۔
النَّدِيمُ وَالنَّدِيمَةُ: مجلس شراب کا ساتھی۔
رَفِيقٌ وَسَاتِحٌ۔ ج نَدَامٌ وَنَدَمَاءٌ وَنَدَمَانٌ.
الْمَنْدَمُ: پشیمانی۔
الْمَنْدَمَةُ: باعثِ پشیمانی۔
نَدَهَ (ف) نَدَهَا الرَّجُلُ: آواز دینا.....
الرَّجُلُ: ڈانٹنا۔ چلا کر دھتکارنا.....
الْإِبِلُ: اکٹھا ہونگنا۔
إِسْتَدَّهَ وَإِسْتَدَّهَ الْأَمْرُ: درست ہونا۔

شرارت کرنے والا۔ ج مَنَادِيصُ.
إِسْرَاءُ مَبْدَاصٌ وَنَدَصَةٌ: بے وقوف بد
زبان عورت۔ خفيف العقل عورت۔
نَدَعُهُ (ف) نَدَعًا: اُتَلَّجِي چھوٹا.....
بِالرَّمْحِ أَوْ الْكَلَامِ: نیزہ مارنا۔ بُرَاكِبْنَا
..... الرَّجُلُ: تکلیف کرنا۔ نَدَعْتُهُ
العُقْرَبُ: بچھو کا بٹنا۔
نَدَعُ الشَّيْءِ: گدگدایا جانا۔
نَدَعُ الْعَجِيزِينَ: گوندھے ہوئے آنے پر
خشک آنا ڈالنا۔
نَادَعُهُ: ہا ہم عشق بازی کرنا۔
أَنْدَعُ بِهِ: بُرَاكِبُ لُوكُ کرنا۔
أَنْدَعُ: آہستہ بٹنا۔
النَّدَعُ وَالْبَدَعُ: جنگلِ صَعْوَرِ. النَّدَعُ: شہد۔
النَّدَعَةُ وَالْبَدَعَةُ: ناخن کی جڑ کی سفیدی۔
الْمَنْدَعُ: نیزہ باز۔ کلام سے تکلیف پہنچانے
والا۔
نَدَفَ (ض) نَدَفًا الْقَطَنُ: روئی ڈھنسا۔
..... بِالْعُقْرَبِ أَوْ الْمَزْهَرِ: بربط یا سارنگی بجانا
..... الطَّعَامُ: کھانا..... الدَّابَّةُ: چوپایہ کو تیز
ہانگنا۔ تَدَفَّتِ السَّمَاءُ بِالثَّلْجِ: آسمان کا
برف برسنا۔
نَدَفْتُ (ش) نَدَفًا وَنَدِيفًا وَنَدَفَانًا الدَّابَّةُ:
رفقار میں تیزی سے دونوں اگلی ٹانگوں کو
پھراتا۔
أَنْدَفَ: بربط کی آوازی طرف مائل ہونا۔
الدَّابَّةُ: چوپایہ کو تیز ہانگنا..... الْكَلْبُ: کتے کو
پلانا۔
نَدَفَ تَنْدِيفًا الْقَطَنُ: روئی رہتا۔
النَّدَفَةُ: تھوڑا سا دودھ۔
النَّدَفُ: وحشیا۔ بربط نواز۔ بہت کھانے
والا۔
الْبَدَاةُ: روئی دھنسنے کا پیشہ۔
النَّدِيفُ مِنَ الْقَطَنِ: وحشی ہوئی روئی۔
الْمَنْدَفُ وَالْمَنْدَفَةُ: روئی دھنسنے کی کمان۔
نَدَلَ (ن) نَدْلًا الشَّيْءُ: جلدی سے اچک
لینا۔ مثل کرنا..... الدَّلْوُ مِنَ الْبَيْرِ: کتوں میں

تَسَادَى الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو پکارتا (.....) وَاِنْتَدَى الْقَوْمُ: مجلس میں جمع ہونا۔ وَاِنْتَدَى الرَّجُلُ: مجلس میں حاضر ہونا۔ کہا جاتا ہے "مَا اِنْتَدَيْتُ مِنْهُ شَيْئًا" میں نے اس سے کوئی خیر حاصل نہیں کی۔ النَّدَى: مِص - بادشہ - سبز گھاس - شبنم - تر مٹی۔ بخور کے مانند ایک چیز جس سے خوشبودار کرتے ہیں۔ انہما - بخشش - فضل و خیر۔ چربی۔ جِ انْدَاءِ وَاِنْدِيَّةٌ۔ الْبِدَاءُ وَاَلْبَدَاءُ: پکارا۔ آواز۔	السُّنْدِيَّةُ: ایسا کلمہ جو حیا کی وجہ سے پیشانی کو پسینا آلود کر دے۔ جِ سُنْدِيَّاتٍ۔ الْمُنْتَدِي: مجلس۔ نَذْرٌ (ن) نَذِيرٌ: ریت یا کھنکھار نکلتا۔ پیشاب کرنا۔ النَّذِيرُ: مِص - ریت - کھنکھار - تھوک۔ نَذَخَ (ف) نَذَخًا وَاِنْدَخَ الْبَعِيرُ: اونٹ کا تیز دوڑنا۔ النَّوَذُخُ: بزدل۔ نَذَرَ (ن ض) نَذْرًا وُنَذُورًا: نذر ماننا۔ غیر واجب کو اپنے اوپر واجب کرنا جیسے کہا جاتا ہے "نَذَرَ مَالَهُ" و "نَذَرَ عَلَى نَفْسِهِ لِبَلِيَّةٍ مِنْ الْمَالِ كَثْرًا". وُنَذَرَ الْجَيْشُ فَلَاتًا: فوج کا کسی کو دید بان بنانا۔ الْاَبَ الْوَالِدُ: خادم کیسا بنانا۔ نَذِرٌ (س) نَذِيرٌ: جاننا اور چوکنا ہونا اور تجارتی کرنا۔ کہا جاتا ہے "نَذِرُوا بِالْعَدُوِّ" وہ دشمن سے واقف ہو کر چوکنا ہو گئے۔ اَنْذَرَهُ بِالْاَمْرِ اَنْذَارًا وُنَذِيرًا وُنَذْرًا وُنَذْرًا: جتلا نا اور انجام سے ڈرانا۔ (چار آخر کے مصدر غیر قیاسی ہیں)
النَّدَى وَاَلْبَدَاءُ: پکارا۔ آواز۔ النَّوَذِيَّةُ: اسم مرءة۔ جماعت۔ مجلس۔ دَارُ النَّوَذِيَّةِ: مجلس مشورہ النَّوَذِيَّةُ: بخشش۔ مشورہ۔ النَّوَذِيَّةُ: اونٹوں کے پانی پینے کی جگہ۔ السُّنْدِيُّ وَاَلْسُنْدِيُّ: گیلیا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ سُنْدِيٌّ الْكُفَّيْ وِنَدِيُّ الْكُفَّيْ" فلاں فیاض و سنی ہے مومنٹ نَدِيَّةٌ وِنَدِيَّةٌ. السُّنْدِيُّ: مجلس اور کہا جاتا ہے "هُوَ نَدِيُّ الصُّوْتِ" وہ بلند آواز ہے۔ النَّذِيَانُ: گیلیا۔ النَّادِي: فنا۔ مجلس جب تک کہ لوگ اس میں موجود ہیں۔ جِ اَلْبَدِيَّةِ وَاَلْوَادِ وَاَلْوَادِ وَاَلْوَادِ: النَّادِي كَا مَوْثِجِ نَادِيَّاتٍ وَاَلْوَادِ وَاَلْوَادِيَّاتِ الشَّيْءِ: چیز کے اوائل۔ وَاَلْوَادِي الدُّخْرُ: حوادث زمانہ۔ النَّوَادِي: گوشے۔ متفرق اونٹنیاں نَسَخَلُ نَادِيَّةٌ: پانی سے دور گھوڑے درخت۔ الْاِنْدِيُّ: اسم تفضيل۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ اِنْدِيٌّ مِنْ فُلَانٍ" فلاں فلاں سے زیادہ فیاض ہے "وَهُوَ اِنْدِيُّ صَوْتًا مِثْلَهُ" وہ اس سے زیادہ بلند آواز ہے۔ التَّنَادِي: مِص نَوْمُ التَّنَادِي: يوم قِيَامَتِ۔ التَّنْدِيَّةُ: مِص تَنْدِيَّةُ الْخَيْلِ: گھوڑوں کو چھریا بنانا اور دوڑانا یہاں تک کہ پسینہ آ جائے اور ڈھیلا پن جاتا رہے۔ الْمُنْدِيُّ: گھوڑوں کو چھریا بنانے اور دوڑانے کی جگہ۔	ذُرَانًا۔ جِ نَذَائِرٍ۔ السُّنْدِيُّ: فنا۔ ڈرانے والا۔ اَبُو السُّنْدِيُّ: مرض کی کنیت۔ اِبْنُ السُّنْدِيِّ: حیرہ کے ایک بادشاہ کی کنیت جس کا نام نعمان تھا۔ الْمَنَادِرَةُ: شاہان حیرہ۔ الْمُنَادِرُ: فنا۔ شیر۔ نَذَعَ (ف) نَذَعًا السَّمَاءُ او الْعُرْفُ: پانی پیننا۔ پسینہ نکلتا۔ الْبِدْعَةُ: پانی وغیرہ کا قطرہ۔ نَذَلَ (ك) نَذَالَةً وُنَذُولَةً: خمیس و حقیق ہونا۔ دین یا حسب میں کمتر درجہ کا ہونا۔ صفت نَذَلَ جِ اَنْذَالَ وُنَذَوْلٌ. وُنَذِيلٌ جِ نَذَلَاءٌ وِنَذَالٌ. السَّرْجَسُ وَاَلْبَرْجَسُ: زمرس۔ واحد نَرْجَسَةٌ (دخیل) السَّرْجِيلُ وَاَلْبَرْجِيلُ: ناریل واحد بَرْجِيلَةٌ اور اسی سے ہے السَّرْجِيلَةُ مَعْنَى السَّرْجِيِّ حَقًّا۔ عوام آڑ کھیلنے کہتے ہیں۔ النَّوَذُ: گھوڑے کے پتلوں کا بنا ہوا تھمیا جس کا پھیلا حصہ چوڑا ہوتا ہے۔ ایک قسم کا کھیل جس کو اردو شیر بن یا بک شاہ ایران نے ایجاد کیا تھا۔ السُّنْدِيُّ وَاَلْبَدِيُّ وَاَلْوَادِي: ایک خوشبودار پودہ۔ سنبل رومی۔ النَّوَذِيُّ وَاَلْبَدِيُّ: بیوں۔ نَزْرٌ (ض) نَزْرًا وِنَزِيرًا وَاَنْزَرًا الْمَكَانُ: بہت چشموں والی جگہ ہونا۔ کثرت سے پانی رسنے والی جگہ ہونا۔ کثرت سے سوتا ہونا۔ نَزْرُ السُّوْتِ: تیر پھیلنے وقت تانت کا حرکت کرنا۔ نَزْرُ فُلَانٍ عِنِي: دور ہونا اور اکیلا ہونا (..... نَزْرًا الظُّلْمِيُّ: بہرین کا دوڑنا۔ آواز نکالنا۔ اَنْزَرًا الشَّيْءُ: سخت ہونا۔ نَزْرٌ فَلَاتًا عَنْ كَثْرَةِ اِيَاكَ كَرْنَا۔ دور کرنا۔ نَزْرَتِ الظُّلْمِيَّةُ وَاَلْبَدِيَّةُ: پرورش کرنا۔ نَارَةٌ مَنَارَةٌ: خطاب میں باہم مقابلہ کرنا۔ الْبَرْجُ وَاَلْبَرْجِيُّ: زمین سے رس کر پیننے والا پانی۔

نَزْوَرٌ - نَزْوَرٌ، النَّزْوَرُ والنَّبْرُ: خوش طبع - تیز فہم۔ جو ایک جگہ قرار سے نہ رہے اور کہا جاتا ہے مکان نَزْوَرٌ کر پانی پینے کی جگہ۔ و"زَجَلٌ" نَزْوَرٌ" برائی کے ساتھ لازم رہنے والا مرد۔

النزوة: اسم مفعول۔ زبردست خواہش۔

أَرْضُ نَزْوَةٍ: ارض کر پانی پینے کی زمین۔ نفاقہ نَزْوَةٌ: سبک افہمی۔

النزاز: جھگڑا کرنا۔ مقابلہ کے دور پر کسی چیز کی رغبت کرنا۔ یا ہم چشنا اور کہا جاتا ہے "ھو نَسَزَا شَرًّا" وہ برائی کے ساتھ لازم رہنے والا ہے۔

النزاز: اسم مبالغہ۔

النزین: جس۔ ہلکا پھلکا۔ کثیر الحركت خوش طبع۔ خواہش مند۔ کہا جاتا ہے "ھو نَزِينٌ شَرًّا" وہ برائی کے ساتھ لازم رہنے والا ہے۔

النزوة: بہت حرکت کرنے والا۔ گہوارہ۔ کہا جاتا ہے "النَّضْبِيُّ لِمَى الْمَنْزِيُّ" بچہ گہوارے میں ہے۔

نَزَا (ف) نَزَاةٌ او نَزْوَةٌ اَبْنَيْنِ الْقَوْمِ: برا بھینٹ کرنا اور فساد اٹانا (نَزَا) عَلِيٌّ فَلَانٌ تَمَلَّكَ كَرْنَا..... فَلَانًا غَلِبْنَاهُ: اگسٹا برا بھینٹ کرنا..... هُ عَن كَمَا: رو کرنا۔ ہٹا دینا۔

نَزَى بِكَذَا: شیفٹ ہونا۔ صفت مفعول نَزْوَةٌ بہ۔

رَجُلٌ نَزَاةٌ: بہت شیفٹ و فریفت۔

النزوى: چھوٹی مقلد۔

نَزَب (ض) نَزَبًا و نَزَابًا و نَزِيًّا. النَّظِيُّ: ہرن کا آواز نکالنا۔

تَنَزَّيْتُ بِالْأَلْقَابِ: ایک دوسرے کو بر القاب دینا۔

النزب: لقب۔ نغ الزواب۔

النزوب: نر ہرن۔ تیل۔

نَزَح (ن) نَزَحًا الْفَلَامُ: لڑکے کا چٹا۔

نَزَح (ف) نَزَحًا و نَزَوْحًا: دور ہونا۔

نَزَحَتِ الْبُيُوتُ: کونوں میں بہت کم پانی ہونا یا ختم ہونا۔ صفت نَزَا ح و نَزْوُ ح و نَزْوُ ح: کہا جاتا ہے "مَسَاءٌ لَا يَنْزُحُ" پانی جو ختم نہ ہو (.....) و انزح (الينز): پانی نکالنا یہاں تک کہ بہت کم ہو جائے یا ختم ہو جائے۔

القوم: کم پانی کے کونوں والے ہونا۔

نَزَحَ بِفُلَانٍ: اپنے وطن سے بہت دور چلا جانا۔

انزح عن دياره: اپنے وطن سے دور ہونا۔

تنزح: دور ہونا۔

النزح: گدلا پانی۔ کٹواں جس کا زیادہ یا تمام پانی نکال دیا گیا ہو۔ نغ انزاح۔

النزاح والنزوح والنزوح: دور۔

المنزوح: دوری۔ کہا جاتا ہے "ھو بِمَنْزُوحٍ مِّنْ كَذَا" وہ اس سے دوری پر ہے۔

قوم منازيح: اپنے وطن سے دور لوگ۔

المنزحة: ذول یا اس کے مانند کوئی چیز جس سے پانی نکالیں۔ نغ منازح۔

نَزْوَةٌ (ن) نَزْوًا: سوال کرنے میں اصرار کرنا۔ جلدی کرنا۔ نَزْوُ الشَّيْءِ: کم سمجھنا.....

فَلَانًا: حکم دینا۔ حقیر سمجھنا۔ کسی کے پاس جو کچھ ہو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے وصول کرنا..... الشَّرَابُ فَلَانًا: مست کر دینا۔

نَزْوٌ (ك) نَزْوًا و نَزْوَةً و نَزَا و نَزَاةً و نَزْوَةٌ و نَزْوَةٌ: کم ہونا..... نَزَاةً الرَّجُلِ: بے برکت ہونا..... النَّاقَةُ: کم دودھ والی ہونا۔

نَزْوٌ و نَزْوٌ: القطاء: کم دینا۔

تَنَزَّرَ الشَّيْءُ: کم ہونا۔ تَنَزَّرَ مِنَ الشَّيْءِ: کم لینا۔

النزور والنزير: بہت کم۔ نزير کی جمع نزر۔ رَجُلٌ نَزْوٌ: بے برکت مرد۔ النزور: اونٹنی کے تھن کا درم اور کہا جاتا ہے "مَسَاجِنَتْ الْاَنْزُرَا" تم بہت تاخیر سے آئے۔

النزيرة والنزور: من النساء: کم بچہ یا کم دودھ والی عورت۔ النزور: کم بولنے والا۔ ہر تھوڑی چیز۔ نغ نَزْوٌ۔

النزور: بہت کم اور کہا جاتا ہے "أَعْطَاةُ

عَطَاةُ مَنَزُورًا" اس نے اس کو ایسا عطیہ دیا جس میں بہت اصرار کرنا پڑا" و عطاة غیر مَنَزُورٌ" اور ایسا عطیہ جس میں اصرار نہ کرنا پڑے۔

نَزَع (ض) نَزَعًا الشَّيْءُ مِنْ مَكَالِهِ: اکھیرنا..... الْأَيْمُرُ الْعَاقِلُ: معزول کرنا.....

بِالشَّهْمِ: تیر پھینکنا..... فِي الْقَوْسِ: کمان کھینچنا..... عَنِ الْقَوْسِ: کمان سے پھینکنا.....

الذَّلُو وَبِالذَّلُو: کھینچنا۔ ذول نکالنا.....

يَذُو: گریبان سے نکالنا..... الشَّنْسُنُ: آفتاب کا مغرب کی طرف جانا.....

الْمَرْيُضُ: بیمار کا قریب الموت ہونا۔

نَزَع (ض) نَزَوْعًا عَنِ كَذَا: رو کرنا۔ باز رہنا..... الْوَلَدُ أَبَاهُ وَالْوَالِي أَيْمَهُ: مشابہ ہونا۔

نَزَع (ف) نَزَعًا مَعْنَى جَيْدًا: عمدہ معنی نکالنا۔

نَزَع (ف) نَزَاعًا و نَزْوَعًا إِلَى أَهْلِيهِ: مشتاق ہونا (.....) نَزَاعًا إِلَى الشَّيْءِ: جانا۔ کہا جاتا ہے "لَهُ نَزَاعَةٌ إِلَى كَذَا" اس کو فلاں چیز کی طرف میلان ہے۔

بِفُلَانٍ إِلَى كَذَا: بلانا۔ دعوت دینا۔

نَزَع (س) نَزَعًا: کٹیٹیوں پر سے بھجا ہونا۔ صفت أَنْزَعُ: مَوْتٌ نَزَعًا (مگر یہ مستعمل نہیں بلکہ أَنْزَعُ کی مَوْتٌ نَزَعًا ہے)

نَزَاعٌ نَزَاعًا الْمَرْيُضُ: بیمار کا قریب الموت ہونا۔ نَزَاعُهُ نَزَاعًا و نَزَاعَةً: جھگڑا کرنا۔

نَزَاعَةُ الْقَوْبِ: کپڑے سے کھینچنا اور اسی سے ہے "أَوْضَى تَنَازَعُ أَوْضُكُمُ" یعنی میری زمین تمہاری زمین سے مشعل ہے۔ نَزَاعٌ إِلَى أَهْلِيهِ: مشتاق ہونا..... فَلَانًا: مصافحہ کرنا..... الْكَاسُ: پیالہ دینا۔

نَزَعُ الشَّيْءِ مِنْ مَكَالِهِ: اکھیرنا۔

أَنْزَعُ الرَّجُلُ: کٹیٹیوں پر سے بھجا ہونا۔

تَنَزَّعَ إِلَيْهِ: دور کر جانا۔

تَنَازَعُ الْقَوْمِ: اختلاف کرنا۔ تَنَازَعُوا الشَّيْءُ: یا ہم کھینچنا..... الْكَاسُ: پیالہ دینا.....

فِي الشَّيْءِ: جھگڑا کرنا۔

انزع الشیء: اُکھڑنا..... الشیء: اُکھیرنا۔
رکنا۔ باز رہنا۔ انزع بالیسفر او
الآیة: شعر یا آیت کو بطور شاہد و مثال کے
پیش کرنا اور کوئی شخص عمدہ معنی پیش کرے تو
کہا جاتا ہے "قد انزع معنی جیداً"۔

استنزعہ عن الشیء: رُک جائے کو کہنا۔ کہا
جاتا ہے "رأه مُکباً علی السُر"
فاستنزعہ" اس نے اس کو رُکائی میں مہمک
دیکھا تو اس سے باز رہنے کو کہا۔

النزع والنزاع والمنازعة ونزع
الحيوة: قریب موت کی حالت۔

النزاع النزاعة والمنازعة: جھگڑا
خصوصت۔

النزعة نازع: کی جمع۔ تیر پھینکنے والے اور

عرب کے امثال میں سے ہے "غاذ الشہم
الی النزعة" یعنی حق دار کو مل گیا۔

النزعة: کپٹیوں پر بال جھڑ جانے کی جگہ۔ ج
نزعات. النزعة: پہاڑی راستہ۔

النزاع: قا۔ مسافر۔ ج نزعة ونزاع
ونزوع: مؤنث نازعة. ج نوازع ونازعات
کہا جاتا ہے "شاة نازع" یعنی وہ بکری جو

بکرے کی طالب ہو۔

النزيع: مسافر۔ دور۔ کہا جاتا ہے "مساکن
نزيع" دور کی جگہ۔ کم گہرا کنواں۔ وطن کا

مشتاق۔ لوٹنی بچہ۔ شریف اور ایسا ہی
"فیرس نزيع" اصل گھوڑا۔ ج نواع.

نواع القبائل: اجنبی لوگ جو دوسرے قبائل
کے پڑوس میں رہیں۔ النزيع: اکھیرا ہوا۔

شمر نزيع: توڑا ہوا پھل۔ مؤنث نزيعة. ج
نزاع

النزيعة من النساء: عورت جس کی شادی
دوسری قوم میں کی گئی ہو۔ وہ عورت جو اپنے

وطن کی مشتاق ہو..... من السجائب: وہ
احمیل اونٹنیاں جو دوسرے ملک میں لے

جائی گئی ہوں۔ ج نزاع. النزاع: چوبائی ہوا
..... من الابل والخیل: مسافروں سے

چھینے ہوئے اونٹ یا گھوڑے۔

النزوع: وطن کا مشتاق۔ بشر نزع: کم گہرا
کنواں۔ لہلاۃ نزع: ذور کا بیابان۔ ج
نوع ونزاع.

النزاعة: ہاتھ سے اکھیر کر پھینکی ہوئی چیز۔
الانزع: کپٹیوں سے گھجا۔ مؤنث نزعاء.

المنزع: کھینچنے کی جگہ۔ ج منازع.
المنزع: سخت کھینچنے والا۔ دور پھینکا ہوا تیر۔

المنزعة: جھگڑا۔ شہدا ٹھانے کی چوڑی
لکڑی۔

المنزعة والمنزعة: ہمت۔ کہا جاتا ہے
فلان یعیذ بالمنزعة: فلان بڑی ہمت والا

ہے۔ انجام کار و تدبیر کہ جس کی طرف آدمی
رجوع کرے اور کہا جاتا ہے "شرب

طیب المنزعة" لذیذ شراب۔
نزعة (ف) نزعاً: انگلی چھوٹا یا نیرہ مارنا۔

تھوڑی سی حرکت دینا۔ عیب لگانا۔ نسبت
کرنا..... ف بکلمة: طعن و تشنیع کرنا۔

نزع (ف ض) نزعاً بین القوم: فساد و النہ
اور کہا جاتا ہے "نزع الشیطان بینہم

"شیطان نے بعض پر بعض کو ورغلا دیا
و"نزع الشیطان الی المعاصی" شیطان

نے اس کو گناہوں پر اکسایا۔

النزع: مص۔ اُکسانے والا کلام۔ نزع
الشیطان: شیطان کو سو سے۔ وہ چیزیں جن

سے انسان گناہوں میں آلودہ ہو جائے۔
النزعة نزع: کا اسم مرۃ۔ طعن و تشنیع۔ ج
نزعات.

النزاع والمنزع والمنزعة: قوم کے
درمیان فساد لٹنے والا۔

النزاعة نازع: کا مؤنث۔ ج نوازع
النوازع. فساد لٹنے والیاں۔

النزیعة: بر اکلمہ۔
نزع (ض) نزعاً: مناء البئر: کنوئیں سے

سارا پانی نکال ڈالنا..... البئر: کنوئیں کا پانی
نکالا جاتا..... دم فلان: پچھتا یا فصد سے خون

نکالنا..... عبرتہ: آسو حتم کرنا..... اللدم
فلان: بہت خون نکل جاتا۔

نزع مناء البئر: کنوئیں سے سارا پانی نکالنا
جانا..... الرجل: بے عقل ہونا یا بدست ہونا

..... فی السخطونة: حجت و دلیل سے
خاموش ہو جانا..... ونزع الرجل:

ذمما: بکسیر چل کے سارا خون نکل جانا۔
نزع (س) نزعاً عنزقہ: آسو خشک ہونا۔

انزع البئر: کنوئیں سے سارا پانی نکال
لینا۔

العبرات: آسو حتم کر دینا۔ انزعفت
البئر: کنوئیں سے سارا پانی نکل جانا۔ انزع

الرجل: نادار ہونا۔ بدست ہونا۔ بے عقل
ہونا۔ جھگڑے میں حجت منقطع ہونا۔

انستزع: اللطمع او المناء: سب نکال لینا۔
النزع: مص۔ نزع الدم: خون کا بہنا۔

النزع: کنوئیں کا پانی نکالنا۔ بہت خون نکل
جانے سے کمزوری۔

النزاع: قا۔ عسوق نازع: رگ جس سے
خون جاری نہ ہو۔ ج نزع.

النزعة: تھوڑا سا پانی وغیرہ۔ ج نزع.
النزوع: کنواں جس کا سارا پانی ہاتھ سے

نکال لیا گیا ہو۔

نزعاف: اسم فعل بمعنی امر۔ کہا جاتا ہے
"نزعاف مناء البئر" یعنی کنوئیں کا سارا پانی

نکال لو۔

النزيف والنزوف: کثرت سے خون نکل
جانے کی وجہ سے کمزور۔ پیاس سے خشک

زبان والا۔ النزيف: بدست۔ بخار زدہ۔
بئر نزیف: کم پانی والا کنواں۔

النزوف: بے عقل۔
المنزوفة: جس سے پانی نکالا جائے۔
ذ حیرگی۔

نزع (س) نزعاً ونزوقاً الرجل: قدم کی
وجہ سے خفیف اٹھل ہونا۔ طیش میں آنا۔

صفت نزع: مؤنث نزعۃ (..... نزعاً)
الاناء: برتن کا لباب ہونا۔

نزع (س) ونزع (ض ن) نزعاً ونزوقاً
الفرس: گھوڑے کا کودنا۔ اچھلنا۔

نَزَقَ (ض) نَزَقًا الْإِنَاءَ: برتن کو با لب کرتا۔

نَزَقَ وَالنَزَقَ الْفَرَسَ: گھوڑے کو کوداتا۔
النَزَقَ الرَّجُلُ فِي الضَّحْكَ: بہت زیادہ ہنسا۔

فُلَانٌ: عقل کے بعد خفیف العقل ہونا
النَّبِيمُ فُلَانًا: سبکی پر برا بھینٹہ کرتا۔

نَسَاقَةٌ نِسَاقًا وَمَسَاقَةٌ: قریب ہونا۔ گالی دینا۔

تَنَازَقًا: ایک دوسرے کو گالی دینا۔

النِّزَاقُ: مصلحت۔ جہالت و حماقت کی وجہ سے جلد بازی۔ مِمَّا نَزَقَ: قریب جگہ۔

النِّسْزَاقَةُ: اسم مرثیہ۔ دوڑ کی ابتدا میں اٹھل کود۔

النِّسْزَاقُ: نِسْزَاقٌ: میں لغت سے بمعنی چھوٹا نیزہ نِسْزَاقٌ۔

النِّسْزَاقُ وَالنِّسْزَاقَةُ مِنَ النَّوْقِ: سرکش اونٹنی۔
النِّسْزَاقُ: نیزہ رِقَارٌ اونٹنی۔

النِّسْزَاقُ: بہت باتیں کرنے والا۔
نُزْكَةٌ (ن) كُنْزُكًا: نیزہ مارنا۔ عیب لگانا۔ بُرَا کہنا۔ ناحق جھوٹ یا مدحنا۔

النِّزَاكُ وَالنُّزُكُ: بہت عیب لگانے والا۔
النِّزْيَاكَاتُ: شریر لوگ۔

النِّسْزَاكُ: چھوٹا نیزہ۔ نِسْزَاكٌ۔
النِّسْزَاكُ: ٹوٹے ہوئے ستارے۔

نَزَلَ (ض) نَزُولًا مِنْ غَلْبٍ إِلَى اسْفَلٍ: اترنا۔ بہہ۔ اُتَارْنَا: بہہ۔

الْأَخِيرُ: واقع ہونا۔ فُلَانٌ عَنِ الْحَقِّ: چھوڑ دینا۔ (نَسَزَلَهُ) مسافرت کرتا۔ کہا جاتا

ہے "نَسَزَلْتُ النَّزْلَ" میں ہمیشہ سفر کرتا رہا۔
(نَسَزَلْنَا وَنَسَزَلْنَا) الْقَوْمُ: قوم کے پاس اترنا۔

نَزَلَ (س) نَزْلَةَ الرَّجُلِ: زکام میں مبتلا ہونا۔
(نَسَزَلْنَا) السُّرُوعَ: بھتیگی کا بڑھنا۔

النَّسْكَانُ: سختی کی وجہ سے تھوڑی بارش میں بھی بیٹھے والی جگہ ہونا۔

نَزَلْنَا: اُتَارْنَا۔ نَزَلَ الشَّيْءُ: مرتب کرتا۔

الشَّيْءُ مِمَّا نَزَلَ الشَّيْءُ: قائم مقام کرنا۔ اللہ کی کلامتہ علی انبیائہ: تدریجاً وحی نازل کرتا

..... الْقَوْمُ: منازل میں اُتَارْنَا۔
الْمَخَاسِبُ الرَّقْمَةُ: رقم لکھنا۔

النَّزْلُ: النِّزَالُ وَالْمُنْزَلُ الشَّيْءُ: اُتَارْنَا۔ اُنْزَلَ: الضَّيْفُ: مہمان اُتَارْنَا۔ اللُّسَّةُ الْكَلَامُ:

یکبارگی وحی نازل کرتا اور کہا جاتا ہے "اُنْزَلَ حَاجَتَهُ عَلَيَّ كَحَرِيمٍ" اس نے اپنی حاجت کریم کے سامنے پیش کی۔ یعنی پوری

کرنے کی درخواست کی۔

نَزَلْنَا نِسْزَالًا وَمَسَاقَةً فِي الْحَرْبِ: مقابلہ میں اُتارنا اور جنگ کرتا اور کہا جاتا ہے

"خَازِنُوا بِالنِّزَالِ" دونوں فریق نے اونٹوں سے اتر کر گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگ کی۔

تَنَازَلَ الْقَوْمُ: اونٹوں سے اتر کر گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگ کرتا۔ میدان جنگ میں اتر

کر جنگ کرتا۔ الْقَوْمُ فِي السَّفَرِ: کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس کھانا اور مولدین کے استعمال میں نَسْزَالٌ

الرَّجُلِ: کے معنی درجے سے اترنے کے ہیں۔

تَنْزُولٌ: آہستہ آہستہ اترنا۔ عَنِ الْحَقِّ: حق چھوڑ دینا۔ تَنْزُولٌ فُلَانًا: اُتَارْنَا۔

اِسْتَنْزَلْنَا: اُتَارْنَا۔ اِسْتَنْزَلْنَا عَنْ رَأْيِهِ او حَقِيقَةً: رائے سے یا حق سے نیچے اترنے کے لئے اِسْتَنْزَلَ فُلَانٌ: مرتبہ سے اُتارنا۔

النَّزْلُ وَالنُّزُولُ: کھانا جو مہمان کے سامنے پیش کیا جائے۔ نِسْزَالٌ: النُّزُولُ: باہرکت کھانا۔ النَّزُولُ: اترنے والے لوگ۔

النُّزُولُ وَالنُّزُولُ: بھتیگی کی بالیدگی اور ستمرائی۔ داد و دہش و فضل۔ النَّزُولُ: بارش

وَجَسَلٌ ذُو نَسْزَلٍ: بہت داد و دہش والا۔ باہرکت نِسْزَالٌ۔ اَنْزَالَ الْقَوْمُ: قوم کی روزیاں۔

النُّزُولُ: جمع شدہ۔ نِسْزُولٌ: جگہ جہاں بہت اتریں۔ سخت جگہ جہاں سیلاب جلدی آئے۔ کہا جاتا ہے

نِسْزَالَةٌ: اُتَارْنَا۔ نَزَلَ الشَّيْءُ: مرتب کرتا۔

نِسْزَالَةٌ: اُتَارْنَا۔ نَزَلَ الشَّيْءُ: مرتب کرتا۔

مِمَّا نَزَلَ.

النُّزُولَةُ: نَزْلٌ: کا اسم مرثیہ اور کہا جاتا ہے "لَقَدْ رَأَى نَزْلَةَ أُخْرَى" اس نے اس کو یقیناً

دوسری مرتبہ دیکھا۔ زکام نزل۔ اُرْضُ نَزْلَةٌ: عمدہ بھتیگی والی زمین اور کہا جاتا ہے

"نَزَلَتْ بِهِمْ وَنَسَزَلَتْ بِهِمْ" میں نے ان کو درست حالت میں چھوڑا۔

النِّسْزَالَةُ: سخت زمین ہونے کی وجہ سے تھوڑی سی بارش میں بہہ پڑنا۔

النُّزَالَةُ: سفر۔ مہمانی۔ کہا جاتا ہے "مِمَّا نَزَلْنَا نِسْزَالًا" ہم فلاں کی مہمانی میں تھے۔

"وَفُلَانٌ مَسْزَالٌ سُوْءٌ" فلاں نسیم باپ سے ہے۔

النَّزَالَةُ: النَّزَالُ: کا مؤنث۔ سخت مصیبت و نازلات و نوازل۔

النَّزَالُ: بہت اترنے والا۔ بہت مقابلہ کرنے والا۔

النَّمْسُزَالَةُ: گوشت اور پتنگین سے تیار کیا ہوا کھانا۔

النَّمْسُزِيلُ: مہمان۔ باہرکت۔ کھانا۔ کہا جاتا ہے "نَسَزَلْنَا نَسْزِيلًا" کامل کپڑا "وَفُلَانٌ نَسْزِيلِي" فلاں میرے ساتھ گھر میں اترنے والا ہے۔ نَسْزِيلًا۔

النَّمْسُزِيلُ: مصلحت۔ ترتیب۔ اوپر سے نیچے اترنا۔

النَّمْسُزِيلُ: اترنے کی جگہ۔ مکان۔ چشمہ۔ نِسْزَالٌ۔

النَّمْسُزُولُ: مہمان نہ۔

النَّمْسُزُولَةُ: اترنے کی جگہ۔ گھر۔ مرتبہ۔ کہا جاتا ہے "لَمَّا نَزَلْنَا عِنْدَ الْاَخِيرِ" اس کو امیر کے پاس مرتبہ حاصل ہے "وَتَسْرِعُ" النَّمْسُزُولَةُ: دو بلند مرتبہ والا ہے۔

نَسَزَلْنَا الرَّجُلَ: سر بلانا۔ اَلْأُمُّ صَبِيْحًا: ماں کا بچے کو دانا۔ نچانا۔

نَزَاةٌ (ن) نَزَاهًا الْاَيْلِ: اونٹ کو پانی سے دور رکھنا۔

نِسْزَالَةٌ (س) وَنِسْزَالَةٌ (ك) نِسْزَالَةٌ

وَنَزَاهِيَةً: برائی سے دور ہونا۔ پاک دامن ہونا..... الْمَكَانُ: محنت افزا ہونا۔

نَزَاهَةٌ: بری بات سے دور کرنا۔ "نَزَاهَةٌ نَفْسُهُ عَنِ الْقَبِيحِ" اپنے آپ کو گناہ سے پاک رکھنا۔ نَزَاهَةُ اللَّهِ عَنِ السُّوءِ: اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کرنا۔

نَزَاهَةٌ عَنْ كَذَا: دور ہونا۔ محفوظ ہونا۔ کہا جاتا ہے "يَنْزَهُ عَنِ الْمَطَامِعِ وَعَنِ مَلَاحِمِ الْأَخْلَاقِ" وہ لالچ اور برے اخلاق سے برتر ہے۔ فَلَانٌ: سیر کو نکلنا۔

إِسْتَنْزَهُ عَنْ كَذَا: دور ہونا..... فَلَانٌ: سیر و تفریح کو جانا۔

النزوه والنزه والنزاه: پاک دامن۔ برائیوں سے دور۔ حج نزهاء و انزاه و نزاه مکان نزهة و نزوة و نزوية: لوگوں سے دور جگہ۔ صحت افزا مقام۔

النزوة: اسم ہے تنزوة سے بمعنی سیر و تفریح حج نزهة اور کہا جاتا ہے "هُوَ بِنُزْهَةٍ مِنَ الْمَاءِ" او عن الماء: وہ پانی سے دور ہے۔

النزهة والنزاهة: برائی سے دور۔

النزاهة: کہا جاتا ہے "هُوَ نَزَاهَةُ النَّفْسِ" وہ پاک دامن ہے۔

المستزوه: سیر و تفریح کی جگہ۔

نَزَاهِيَةٌ وَنَزْوَةٌ وَنَزْوَانٌ: کودنا۔

عَلَيْهِ: کس پر گرنا اور روندنا..... الذمير على الأنفى: جھتی کرنا اور اسم النزاء والنزاه اور

اس کا استعمال چوپایوں کے لئے ہوتا ہے۔

نَزَاهَةٌ قَلْبُهُ إِلَى كَذَا: شیفتہ و فریفتہ ہونا۔

نَزَابَتِ الْحُمُرُ: گدھوں کا اچھلنا کودنا۔ نَزَا الطَّعَامُ: تلک کا گرا ہونا..... نَزْوَانٌ: بچ کر نکل بھاگنا۔

نَزَى نَزْوًا الرَّجُلُ: سارا خون نکل جانا۔ کہا جاتا ہے "أَصَابَهُ جُرْحٌ فَنَزَى مِنْهُ فَمَاتَ" اس کو زخم لگا جس کی وجہ سے سارا خون نکل گیا اور وہ مر گیا۔

نَزَى نَزْوًا إِلَى الشَّرِّ: برائی کی طرف جلدی کرنا۔

إِنْتَزَى إِنْتِزَاءً: برائی کی طرف جلدی کرنا۔ کہا جاتا ہے "إِنْتَزَى عَلَيَّ أَرْضٌ كَثْرًا فَأَخَذَهَا" اس نے فلاں زمین کی طرف سبقت کی اور اسے لے لیا۔

النزوة: کودائی۔ ہر چھوٹی چیز۔

النزاي: نازی عقیدہ والا۔ اسی سے ہے (نازی ازم)۔

النزاية: جرمن لوگوں کا قومی عقیدہ۔

النزايه: النزاي کا مؤنث۔ تیزی و تیز روی۔ کم گہرا پیالہ۔ اَلْكَمَّةُ نَزَايَةٌ: اردگرد سے بلند ٹیلہ۔

النزى والنزاء والمُنْتَزَى: بہت اچھل کود والا۔

النزوة: النزى کا مؤنث۔ بادل۔ کم گہرا پیالہ۔ النزوة: اچا تک شوق۔ اچا تک مصیبت۔ کلبازی کی دھار۔

النزوان: تیزی و جوش۔

نَسَّ (ض ن) نَسًا وَنَيْسًا النَّاقَةَ: ہانکنا اور ڈانٹنا۔ کہا جاتا ہے "كَمَا نَسَّ أَصْحَابُهُمْ" یعنی اپنے ساتھیوں کے پیچھے چل رہا تھا..... نَسًا وَنَيْسًا الْقَوْمَ:

پانی پر بیچنا۔

نَيْسًا وَنُسُوسًا الْخَيْزُرًا وَاللَّحْمَ: روٹی یا گوشت کا خشک ہونا..... فَلَانٌ: جلدی سے ہر کام پر گزرنے والا ہونا۔

نَسَّ (ض ن) نُسُوسًا الْحَطَبَ: ککڑی سے جلنے میں دوسری جانب پانی نکلنا..... لِفَلَانٍ: حقیقت حال سے واقف ہونا۔

نَسَسَ الْمَاشِيَةَ: جانور کو چلانا..... الصَّبِيُّ: بچے کو پیشاب یا پاخانہ کرانے کے لئے اس

اس کہنا۔

النَّسَّ الدَّائِيَةَ: چوپایہ کو پیسا کرنا۔

نَسَسَ مِنْهُ الْأَخْبَارَ: سن گن لینا۔ خبردار ہونے کی کوشش کرنا۔

النَّاسُ: فال۔ خُبْرٌ نَاسٌ: خشک رہتی۔

النَّبِيسُ: مہس۔ ہانکا ہوا۔ سخت بھوک۔ پوری کوشش۔ ککڑی کے جھاگ جو جلنے کی

حالت میں دوسرے سرے پر نکلے۔ ن نَسَسَ (..... وَالنَّبِيسَةُ) طیبوت۔

النَّبِيسُ: جسم میں بقیروں۔ کہا جاتا ہے "تَبَلَّغَ مِنْهُ نَبِيسُهُ وَنَبِيسَتُهُ" یعنی مرے لگا لگا نَبِيسَةُ: جھل خوری۔ تری جو جلنے کی ککڑی کے پچھلے سرے پر ظاہر ہوتی۔ نَسَسَ: نفس: رومی بڑیں۔

النَّبِيسُ: مہس۔ تیز چال۔

النَّبِيسَةُ وَالنَّبِيسُ: لالچی۔

نَسَا (ف) نَسًا الدَّائِيَةَ: چوپایہ کو ڈانٹنا اور ہانکنا۔ حوض سے بنانا..... اللَّبْنُ بِالْمَاءِ:

دودھ میں پانی ملانا..... ة: لسی پلانا۔ نَسَاتِ الْمَاشِيَةَ: موٹائی ظاہر ہونا..... نَسَا وَمَنْسَأَةً الشَّىْءِ: مؤخر کرنا۔ کہا جاتا ہے

"نَسَا اللَّهُ أَجَلَهُ وَفِي أَجَلِهِ" مہلت دینا۔

عمر دراز کرنا..... فَلَانًا: تمہاری کرنا۔

حفاظت کرنا..... ة النَّبِيعِ وَفِي النَّبِيعِ: بیچنا اور ادائیگی قیمت کی مہلت دینا..... (نساء) عَنِ فَلَانٍ ذَيْنَةً: ادائیگی قرض کے لئے

مہلت دینا۔

أَنَسَا نِسَاءَ الشَّىْءِ: مؤخر کرنا۔ کہا جاتا ہے "أَنَسَا اللَّهُ أَجَلَهُ وَفِي أَجَلِهِ" عمر دراز کرنا

..... ة النَّبِيعِ وَفِي النَّبِيعِ: بیچنا اور ادائیگی قیمت کی مہلت دینا..... عَنَّةٌ: پیچھے ہونا۔ دور ہونا۔

نَسَا نَيْسَةً: ڈانٹ کر ہانکنا۔

النَّسَاعَةُ: پیچھے ہونا۔ انتساب الابل فی الموعى: اونٹوں کا چراگاہ میں دور ہونا۔

إِسْتَنْسَا غَيْرِيَمَةً: قرض خواہ سے ادائیگی قرض کی مہلت مانگنا۔

النَّبِيسِيُّ: فال۔ مونا (بیوان یا انسان) حج نَسَاةً.

النَّسَاءُ: درازی عمر۔

النَّسَاءُ: مہس۔ لسی۔ بہت پانی والا دودھ۔ عقل تراشل کرنے والی شراب۔ مونا یا

مونا پے کی ابتدا۔

النسء: اصل ل ر ر نئے والا آدمی۔

النسأة والنسینة: تاخیر۔ کہا جاتا ہے باغء بنسینة: اس نے ادھار بیچا۔

النسی: تاخیر۔ بہت پانی ملا ہوا دودھ۔

المنسأة والمنسأة والمنسأة: چرواہے کا بٹرا۔ کہا جاتا ہے "إِنَّ لِيْ عِنْدَكَ لَمُنْتَسًا" میرے لئے تمہاری طرف سے گنجائش ہے۔

نَسَب (ن ض) نَسْبًا وَنَسْبَةَ الرَّجُلِ: نسب بیان کرنا۔ دریافت کرنا۔ نَسْبَةً إِلَى فُلَانٍ: نسبت کرنا۔ نَسْبًا وَنَسْبِيًّا

وَنَسْبَةً الشَّاعِرِ بِالْمَرْأَةِ: تعظیم کہنا۔ غزل میں عورتوں کے اوصاف بیان کرنا۔

نَاسِنَةٌ مَنَاسِنَةٌ: مشابہ ہونا۔ مناسب ہونا۔ نسب میں شریک ہونا۔

تَنَسَّبَ الرَّجُلُ إِلَيْكَ: ہم نسب ہونے کا دعویٰ کرنا اور اسی سے مثل ہے "الْقَرِيبُ مِنْ تَقَرُّبٍ لَّا مَنَ تَنَسَّبَ" قریب وہ ہے جو دوستی سے قربت کرے نہ وہ جو محض دعویٰ ہم نسبی کرے۔

تَنَاسَبًا: باہم مشابہ ہونا۔ تَنَاسَبَ الْقَوْمُ إِلَى أَحْسَابِهِمْ: منسوب ہونا۔

إِنْتَسَبَ الرَّجُلُ: نسب ظاہر کرنا۔ نسب ذکر کرنا۔ اِلَى أَبِيهِ: منسوب ہونا۔

اِمْتَنَسَبَ: نسب بیان کرنا۔ الرَّجُلُ: نسب بیان کرنے کو کہتا۔

النَّسَبُ: مصل۔ قرابت۔ رشتہ داری۔ جِ اَنْسَابُ

النسبة والنسبة: قرابت۔ دو چیزوں کے درمیان ربط و تعلق اعداؤ کے درمیان نسبت مثلاً کہا جائے کہ چار کو آٹھ کے ساتھ وہی نسبت ہے جو پانچ کو دس کے ساتھ اور کہا جاتا ہے "بالنسبة الى كذا" یعنی فلاں چیز کے لحاظ سے۔

النسب: مصل۔ مناسب۔ رشتہ دار۔ صاحب نسب۔ لطیف شعر عورتوں کے متعلق

اور ماہانہ کے لئے "نَسِيبٌ نَّاسِبٌ" کہا جاتا ہے جیسا "شِعْرٌ شَاعِرٌ" (اور فاعل اس موقع پر مفعول کے معنی میں ہے) جِ اَنْسَاءُ وَنَسَاءُ (جیسے شریف و شرفاء) النسابة: رشتہ داری۔

النَّسَابُ جِ نَسَابُونَ وَالنَّسَابَةُ جِ نَسَابَاتُ: نسب کا علم رکھنے والا۔

الانساب: اسم تفضیل اور کہا جاتا ہے "هَذَا الشِّعْرُ اَنْسَبُ مِنْ ذَاكَ" یہ شعر اس سے زیادہ لطیف ہے۔

النَّسِيبَةُ: فلسفی مذہب جو علم و معرفت کی طرف نسبت رکھتا ہے۔

المُنَاسِبُ: فاعل۔ رشتہ دار۔ مشابہ۔

الْمُنْسُوبُ: مفعول۔ شعر منسوب۔ عشقیہ شعر خَطَّ مَنْسُوبٌ: مطابق قاعدہ۔ جِ مَنَاسِبٍ

نَسِبَ يَنْسِبُ: چغل خوری کے لئے دوڑ دھوپ کرنا۔

النَّسِيبُ: چیونٹیوں کی قطار۔ چیونٹیوں کا یا سانپ کا راستہ (..... والنسبان) سیدھا واضح راستہ۔

النَّسَائُتُ: طبیعت انسانی۔ ناس میں واو تا کی زیادتی ہوئی ہے جیسے ملکوت میں۔

نَسَجَ (ن ض) النَّسُوبُ: کپڑا بنانا۔ اَلْمَكْلَامُ: خلاصہ کرنا۔ آراستہ کرنا۔

الشَّاعِرُ الشِّعْرُ: نظم کرنا۔

الغَيْثُ النَّبَاتُ: بارش کا نباتات کو بڑھا کر گھنجان کرنا۔ نَسَجَتِ النَّسُوبُ القُرَابُ او الماءُ: لہریں پیدا کرنا۔ نَسَجَتِ النَّاقَةُ فِي سَبْرِهَا: اونٹنی کا جلدی جلدی قدم اٹھانا۔

اِنْتَسَجَ: بنا جانا۔

النَّسِيجُ: مصل۔ کہا جاتا ہے "نُوبٌ نَسِجٌ اَلْيَمِينُ" کپڑا یمن کا بنا ہوا۔

النساجة: بننے کا پیشہ۔

النساج: بننے والا۔ کلام کو آراستہ کرنے والا۔ جھوٹا۔

نَسِيجٌ وَحْدَةٌ: دو صفات محمودہ میں سے ظہیر و لائالی ہے۔ النَّسُجُ: جائے نمازیں۔

النَّسِيجَةُ: نسج: کا مؤنث۔ جِ نَسَاجٍ

النَّسِيجُ وَالنَّسِيجُ: بننے کا کرگم۔ النَّسِيجُ وَالنَّسِيجُ مِنَ الذَّابِيَةِ: چوپایہ کی گردن کی جڑ سے موٹڑوں تک اٹھی ہوئی جگہ۔

النَّسِيجُ وَالنَّسِيجُ: کرگم۔ نَسِجَ (س) نَسَجًا: لالچ کرنا۔

نَسَخَ (ف) نَسَخًا النَّزَابُ: مٹنی کا نکھیرنا۔

النَّسْحُ وَالنَّسْحُ: کھجوروں کا کوڑا کرکٹ۔

النَّسْحُ: غبار اڑانے کا آلہ۔

نَسَخَ (ف) نَسَخًا الشَّيْءُ: زائل کرنا۔ باطل کرنا۔ مٹانا۔ اَلْكِتَابُ: نقل کرنا۔

نَاسَخَهُ مَنَاسَخَةً: ایک دوسرے کو کھو کرنا۔ تَنَاسَخَا: ایک دوسرے کو کھو کرنا۔ تَنَاسَخَا الشَّيْءُ: ہاتھوں ہاتھ لینا۔ ایک دوسرے کے پیچھے آنا۔ تَنَاسَخَتِ الْاَزْمِنَةُ: پے در پے آنا۔ تَنَاسَخَ الْمَوْزَنَةُ: تقسیم میراث سے پہلے بعض وارثوں کا مر جانا۔

اِنْتَسَخَ الشَّيْءُ: زائل کرنا۔ اَلْكِتَابُ: نقل کرنا۔ اَلشَّيْءُ الشَّيْءُ الشَّيْءُ: کسی چیز کا کسی چیز کے قائم مقام ہونا۔

اِسْتَسَخَ الشَّيْءُ: بمعنی نسخہ۔ لکھنے کو کہتا۔

بَلَدَةٌ نَسِيجَةٌ وَنَسِيجَةٌ: دور کا شہر۔

النَّسِيجَةُ: کتاب نقل کی ہوئی۔ کتاب جس سے نقل کی جائے۔ جِ نَسِجَ کہا جاتا ہے "كَتَبَ الْقَاضِي نَسِيجَتِي بِحُكْمِهِ" قاضی نے اپنے فیصلے کی دو کاپیاں لکھیں۔

النَّسِيجُ: فاعل۔ کتابوں کا نقل کرنے والا۔

النَّسِيجُ: مصل۔ آواگون۔ رُوحُ كَالِاِيكِ بَدَنٍ سِ دَوَسِرِ بَدَنٍ مِثْلٍ اَوِ اس كُو تَقْمِصُ بَوَا نَجِي كِهَا جَا تَا سِ اَوِ جَوَا كِ اس كَا اَعْتَا دَر كَتِهِي هِي وَه تَنَسَا خِيَه كِهَا لَت هِي۔ تَنَسَا خِ الْاَزْمِنَةُ وَ الْقُرُونُ: زمانہ

نَسِجَ (س) نَسَجًا: لالچ کرنا۔

نَسَخَ (ف) نَسَخًا الشَّيْءُ: مٹنی کا نکھیرنا۔

النَّسْحُ وَالنَّسْحُ: کھجوروں کا کوڑا کرکٹ۔

النَّسْحُ: غبار اڑانے کا آلہ۔

کا یکے بعد دیگرے آتا۔

نَسْرَةٌ: (ن) نَسْرًا. عَنَّةٌ: اُتارنا۔
أُدْجِرْنَا: الْجُرْحُ اللَّحْمُ: شگاف کر دینا
الرَّجُلُ: تہمت لگانا۔ بدگویی کرنا۔

نَسْرَةٌ (ض ن) نَسْرًا. الْبَازِيُّ: باز کا چوچ
سے نوجنا۔

نَسْرَ الْحَيْلِ: رستی کا بل کھول دینا۔ توڑ
دینا۔

نَسْرٌ: گدھوں کا شکار کرنا۔۔۔۔۔ الْحَيْلُ: رستی
کا ٹوٹنا۔۔۔۔۔ الْجُرْحُ: زخم کا ٹوٹ جانا اور

پیپ وغیرہ بہ جانا۔۔۔۔۔ الثَّوْبُ وَنَحْوُهُ:
کپڑے کا ہنس کھس کے پھٹنا۔ نَسْرَتِ

الْبَغْمَةِ عَنِ فُلَانٍ: متفرق ہونا۔
انْتَسَرَ طَرَفَ الْحَيْلِ: رستی کے کنارے کا

تکڑے ٹکڑے ہونا۔
انْتَسَرَ الطَّائِرُ: قوت میں گدھ جیسا ہونا

اور اسی سے شل ہے "إِنَّ الْبَغْمَاتِ بِأَرْضِنَا
يَنْتَسِرُ بَغْمَاتٍ" (ایک چھوٹے سے پرندہ کا

نام) ہماری زمین میں گدھ ہو جاتا ہے یعنی
کمزور قوی ہو جاتا ہے۔

النَّسْرُ بِثَلَاثِ النُّونِ وَالْفَتْحِ اشْهَرُ
وَالْفَصْحُ: گدھ۔ اس کی کنیت أَبُو الْأَبْرَدِ وَ

أَبُو الْأَضْبَعِ وَأَبُو مَالِكٍ وَأَبُو الْمَيْهَالِ وَ
أَبُو يَحْيَىٰ هِيَ أَوْلَادُهُ گدھ کی کنیت "أُمُّ

قَشْعَمٌ" نَسْرٌ وَنَسْرٌ وَنَسْرٌ
النَّسْرُ: گھوڑے کے سم کے اندرونی حصہ

میں غدودِ نَسْرٍ. النَّسْرَانُ: دوستارے
جن میں سے ایک کو نسر طائر اور دوسرے کو

نسر واقع کہتے ہیں۔
النَّاسُورُ: ناسور۔ زخم جس سے ہمیشہ مواد بہتا

رہے۔ نَجْوَابِيسُ.
النَّسَارِيَّةُ: عتاب۔

النَّسْرُ وَالْمَنْسِرُ: شکاری پرندہ کی چوچ
النَّسْرُ وَالْمَنْسِرُ: شکر کا ایک حصہ جو

بڑے شکر کے آگے آگے چلے۔ تمس سے
چالیس تک یا چالیس سے پچاس یا ساٹھ تک

یا سو سے دو سو تک گھوڑوں کا گلہ۔ نَجْوَابِيسُ

مَنَابِسُ.

النَّسْرِيْنَ: گل سیوتی۔ وَاحِدٌ نَسْرِيَّةٌ.

نَسَطَ (ن) نَسَطًا الثَّوْبُ: کپڑے کو تر کر
کے نچوڑنا۔

النَّسُطُ: وہ لوگ جو پیدائش کے دشوار
ہونے کے وقت بچے کو باہر نکال لیں۔

نَسَعَتِ (ف) نَسَعًا وَنُسُوعًا وَنَسَعَتِ
الْأَسْنَانَ: ڈھیلے سوزھوں والا ہونا۔ نَسَعُ

فُلَانٍ فِي الْأَرْضِ: جانا (..... نَسُوعًا)
الشَّيْءُ: لہا ہونا۔

انْتَسَعَ الرَّجُلُ: پڑوسیوں کے لئے ایذا
رساں ہونا۔ یا دشمنی میں داخل ہونا۔

انْتَسَعَتِ الْإِبِلُ: اُونٹوں کا چراگاہ میں
متفرق ہونا۔

النَّاسِيعُ: فاجہ گردن۔
النَّيْسُ: ہاتھ کا جوڑ۔ کچادہ کسنے کی چوڑی رستی

یا تسم۔ اس کے ایک ٹکڑے کو النَّيْسَةُ کہتے
ہیں۔ نَجْ نَسَعٌ وَنَسَعٌ وَنُسُوعٌ وَانْتِصَاعٌ.

وَالنَّسَاعُ الطَّرِيقُ: راستے کے وہ گڑھے جو
چوپایوں کی ٹانگوں سے پڑ جائیں۔

النَّيْسُ وَالرَّيْحُ النَّيْسِيَّةُ وَالنَّيْسُوعُ: باؤ
شالی۔

النَّسُوعُ: مہس۔ لہائی۔
النَّيْسُوعَةُ: زمین جس کی پیداوار لمبی لمبی

ہو۔
نَسَعُ (ف) نَسَعًا اللَّيْنُ بِالْمَاءِ: دودھ

میں پانی ملانا۔ نَسَعَهُ بِالسُّوْطِ: چابک
مارنا۔

هُ بِكَذَا: تہمت لگانا۔۔۔۔۔ هُ بِكَلِمَةٍ: طعن و
تفنیج کرنا۔

..... النَّخِيْزَةُ: روٹی پر لوہے سے یا کسی اور
چیز سے گودنا۔ نَسَعَتِ الْوَأَشِمَةَ بِالْإِهْرَةِ:

گودنے والی عورت کا سوئی چھونا۔ فِئْسِي
الْأَرْضِ: جانا۔ نَسَعَتْ وَنَسَعَتِ الْإِنْسَانُ:

دانتوں کا ہلنا۔ دانتوں کی جڑوں کا ڈھیلا ہو
جانا۔ نَسَعَتِ الشَّجْرَةَ: درخت کا کاٹنے

کے بعد پھرا گنا۔ وَنَسَعَهُ: تیزہ مارنا۔

انْتَسَعَتِ الشَّجْرَةُ: درخت کا کاٹنے کے بعد
پھرا گنا۔۔۔۔۔ الْفَيْسَلَةُ: درخت کے پودے

کا نرم حصہ کو نکالنا۔۔۔۔۔ هُ: تیزہ مارنا۔۔۔۔۔ هُ
بِالسُّوْطِ: چابک مارنا۔

انْتَسَعَتِ الْإِبِلُ: اُونٹوں کا چراگاہ میں
متفرق ہونا۔۔۔۔۔ الرَّجُلُ: سوچ بچار کرنا۔

النَّاسِيعُ: فاجہ رجُلُ النَّاسِيعُ: تیزہ بازی میں
ماہر۔ نَجْ نَسَعٌ.

النَّيْسُوعُ: درخت کٹنے کے بعد جو نمی نکلے۔
النَّيْسِيعُ: پینہ۔

النَّيْسُوعَةُ: سوئیوں کا مجموعہ جس سے گودنے
والی عورت گودتی ہے یا پرندہ کے پروں کا یا

لوہے کی تیلیوں کا مجموعہ جس سے نانابائی
روٹی پر نشان کرتا ہے۔

نَسَفَ (ض) نَسْفًا الْبِنَاءُ: عمارت کو بنیاد
سے ڈھانا۔۔۔۔۔ الْحَيْلُ: پہاڑوں کو گرا دینا

..... الشَّيْءُ: چھاننا۔۔۔۔۔ الْحَبُّ بِالْمِنْسَفِ:
غلہ کو چھان سے پھٹکانا (..... وَأَنْسَفَتِ)

الرَّيْحُ الثَّرَابَ: ہوا کا مٹی کو اکھیرنا اور
اڑانا۔

نَسَفَهُ (ن) نَسْفًا وَنُسُوفًا: دانے سے
کاٹنا۔ نَسَفَ الْإِنَاءُ: بھر کر بہہ پڑنا۔

انْتَسَفَ الْبِنَاءُ: عمارت کو بنیاد سے ڈھانا
..... الشَّيْءُ: اکھیرنا۔ انْتَسَفُوا الْكَلَامَ

بَيْنَهُمْ: کم کرنا اور پوشیدہ کرنا۔۔۔۔۔ الْكَلَامُ:
خوف کی وجہ سے ناتمام کہنا اور چپکے چپکے کہنا

..... الرَّيْحُ الشَّيْءُ: ہوا کا کسی چیز کو اکھیرنا اور
اڑانا۔

انْتَسَفَ لَوْنُهُ: رنگ مخمیر ہونا۔
نَسَفَ فِي الصَّرَاعِ: کشش میں پھجھاڑ دینا۔

نَسَفَا الْكَلَامَ: باہم باتیں چپکے چپکے کہنا۔
النَّسْفَةُ بِثَلَاثِ النُّونِ وَالنَّسْفَةُ: پاؤں

رگڑنے کا جھانواں۔ نَجْ نَسْفٌ وَنَسْفٌ
وَنَسْفٌ وَنَسَافٌ.

النَّيْسِيفَةُ: پاؤں رگڑنے کا جھانواں۔
النَّسَافَةُ: غلہ کا پھوڑن۔ دودھ کے

جھاگ۔ زمین سے جو غبار اٹھے۔

نَشَبَ اللَّحْمَةُ: گوشت کے ٹکڑے سے پانی نپکنا۔	انشاء: النِّسْوَةُ: دودھ کا ایک گھونٹ۔	علم حاصل کیا..... الرَّيْحُ: بوسگھنا۔ بوجھوس کرنا۔..... الزَّوْلَةُ: زمین کے جسم کا تیار ہونا اور روح پڑ جانا۔
النَّشُ: بمص۔ ہر چیز کا نصف۔ النَّشَاشُ: اسم مبالغہ۔ وَأَرْضٌ نَشَّاسَةٌ: نمناک زمین جس میں کچھ نہ اگے۔	النِّسْوَةُ وَالنِّسْوَةُ وَالنِّسَاءُ وَالنِّسْوَانُ وَالنِّسْوَانُ وَالنِّسْوَانُ (یہ سب الفاظ مِزَاجٌ کی جمع ہیں) اور نِسْوَةٌ اور نِسْوَةٌ کی طرف نسبت کے لئے نِسْوِيٌّ وَنِسْوِيٌّ اور تَغْيِيرُ نِسْوِيَّةٍ وَرُنْسِيَّةٍ بھی کہا جاتا ہے۔	النَّاسِمُ: قاصد۔ قریب الموت مریض۔ النَّسَمُ: بمص۔ زندگی کا سانس۔ آہستہ چلنے والی ہوا۔ جِ النَّسَامِ: النَّسَمُ: ناک۔ نَسَمٌ: بمعنی روح کی جمع۔ مٹا ہوا راستہ۔ دودھ یا چکناٹی کی بو۔
النَّشِيْشُ: بمص۔ پانی کے جوش کی آواز۔ أَرْضٌ نَشِيْشَةٌ: شور زمین جس میں کچھ نہ اگے۔	النِّسْوَةُ: تمام وغیرہ کے راستے۔ النَّسَمَةُ: زندگی کا سانس۔ ہر جان دار انسان ہو یا حیوان۔ لوٹنی۔ غلام۔ جِ نَسَمٌ وَنَسَمَاتٌ النَّسَمَةُ: سانس کا چڑھنا۔ کہا جاتا ہے "أَضَابَهُ نَسَمَةٌ" یعنی اس کا سانس چڑھ گیا۔	النِّسِيمُ: بمص۔ روح۔ پینہ۔ نرم ہوا۔ جِ نِسَامٌ اور بیماری بھرم آدمی کے لئے کہا جاتا ہے "هُوَ تَقْيِيلُ الظَّلْمِ بَارِدُ النَّسِيمِ"۔
النِّسْيَةُ: مورچہ چل۔ چوری۔ نَشَأُ (ف) وَنَشُوُ (ك) نَشَأُ او نَشُوُهُ او نَشَأَةٌ وَنَشَاءٌ وَنَشَاءَةٌ الشَّيْءُ: نوپید ہونا۔ زندہ ہونا..... الطِّفْلُ: جوانی کو پہنچنا۔ کہا جاتا ہے نَشَأَتْ فِیْ بَنِي فُلَانٍ: میری پرورش بنی فلاں میں ہوئی اور میں جوانی کو پہنچا اور اسم النشء: نَشَأَتْ السَّحَابَةُ: گھٹا اٹھنا۔	نَسَى يَنْسِي نَسْيًا وَنَسِيَانًا وَنَسِيَانَةً وَنَسْوَةً الشَّيْءُ: بھولنا۔ نَسَى وَأَنْسَى الرَّجُلُ الشَّيْءُ: فراموش کرنا۔	النِّسِيمُ: نرم ہوا۔ مٹا ہوا راستہ۔ الاناسیم: لوگ (یہ نسیم کی جمع الجمع ہے) کہا جاتا ہے "مَاصِيِ الْاَناسِيمِ يَفْلُتُ" یعنی لوگوں میں اس کے مانند کوئی نہیں۔
النَّشَاءُ اِنْشَاءً: پرورش کرنا۔ اَنْشَأَ اللّٰهُ السَّحَابَةَ: گھٹا اٹھنا..... الشَّيْءُ: نوپید کرنا..... اللّٰهُ الشَّيْءُ: پیدا کرنا..... اللّٰهُ الخَلْقُ: شروع کرنا۔ اَنْشَأَ التَّحْدِيْثُ او الكَلَامُ: وضع کرنا۔ ابتدا کرنا اور اسی سے ہے "عَلِمُ الْاِنْشَاءُ..... "زَيْدٌ" عمدہ شعر بنانا یا بہترین خطبہ دینا..... فُلَانٌ ذَارًا: تعمیر شروع کرنا۔ اَنْشَأَ فُلَانٌ بَصْرِبَ: مارنے لگنا (اس صورت میں یہ افعال مقررہ میں سے ہے) مِّنَ الْمَكَّانِ: لگنا۔ کہا جاتا ہے مِّنَ اَيْنِ اَنْشَأَتْ: یعنی تم کہاں سے نکلے۔	تَنَاسَى: اپنے آپ کو بھولا ہوا ظاہر کرنا۔ النَّسِيُّ وَالنِّسْيِيُّ: بھولی ہوئی چیز۔ معمولی چیزیں جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے والے چھوڑ جائیں۔	النِّسْمِ: لَبْلَابِلُ: اُونٹ کے کھر کا کنارہ۔ جِ مَنَسِمِ: علامت۔ راستہ۔ مذہب۔ طریقہ۔ کہا جاتا ہے "اَللّٰسِي اَيْنَ مَنَسِمِكَ" تمہاری توجہ کس طرف ہے۔
اَنْشَأَ تَنْشِئَةً: پرورش کرنا۔ نَشَأَ اللّٰهُ السَّحَابَةَ: گھٹا چڑھانا۔ تَنْشَأُ نَشْوًا: اِلَى حَاجَتِهِ: اپنی حاجت کے لئے جاتا۔	النِّسْيَانُ وَالنِّسْيَانَةُ: بہت بھولنے والا۔ النَّسِيُّ: بہت بھولنے والا۔ اپنی قوم میں شمار نہ ہونے والا۔	النِّسْمِ: نرم ہوا۔ مٹا ہوا راستہ۔ الاناسیم: لوگ (یہ نسیم کی جمع الجمع ہے) کہا جاتا ہے "مَاصِيِ الْاَناسِيمِ يَفْلُتُ" یعنی لوگوں میں اس کے مانند کوئی نہیں۔
اِنْشَاءً اِنْشَاءً: پرورش کرنا۔ نَشَأَ اللّٰهُ السَّحَابَةَ: گھٹا چڑھانا۔ تَنْشَأُ نَشْوًا: اِلَى حَاجَتِهِ: اپنی حاجت کے لئے جاتا۔	النِّسْيَانُ وَالنِّسْيَانَةُ: بہت بھولنے والا۔ النَّسِيُّ: بہت بھولنے والا۔ اپنی قوم میں شمار نہ ہونے والا۔	النِّسْمِ: نرم ہوا۔ مٹا ہوا راستہ۔ الاناسیم: لوگ (یہ نسیم کی جمع الجمع ہے) کہا جاتا ہے "مَاصِيِ الْاَناسِيمِ يَفْلُتُ" یعنی لوگوں میں اس کے مانند کوئی نہیں۔
اِنْشَاءً اِنْشَاءً: پرورش کرنا۔ نَشَأَ اللّٰهُ السَّحَابَةَ: گھٹا چڑھانا۔ تَنْشَأُ نَشْوًا: اِلَى حَاجَتِهِ: اپنی حاجت کے لئے جاتا۔	النِّسْيَانُ وَالنِّسْيَانَةُ: بہت بھولنے والا۔ النَّسِيُّ: بہت بھولنے والا۔ اپنی قوم میں شمار نہ ہونے والا۔	النِّسْمِ: نرم ہوا۔ مٹا ہوا راستہ۔ الاناسیم: لوگ (یہ نسیم کی جمع الجمع ہے) کہا جاتا ہے "مَاصِيِ الْاَناسِيمِ يَفْلُتُ" یعنی لوگوں میں اس کے مانند کوئی نہیں۔
اِنْشَاءً اِنْشَاءً: پرورش کرنا۔ نَشَأَ اللّٰهُ السَّحَابَةَ: گھٹا چڑھانا۔ تَنْشَأُ نَشْوًا: اِلَى حَاجَتِهِ: اپنی حاجت کے لئے جاتا۔	النِّسْيَانُ وَالنِّسْيَانَةُ: بہت بھولنے والا۔ النَّسِيُّ: بہت بھولنے والا۔ اپنی قوم میں شمار نہ ہونے والا۔	النِّسْمِ: نرم ہوا۔ مٹا ہوا راستہ۔ الاناسیم: لوگ (یہ نسیم کی جمع الجمع ہے) کہا جاتا ہے "مَاصِيِ الْاَناسِيمِ يَفْلُتُ" یعنی لوگوں میں اس کے مانند کوئی نہیں۔
اِنْشَاءً اِنْشَاءً: پرورش کرنا۔ نَشَأَ اللّٰهُ السَّحَابَةَ: گھٹا چڑھانا۔ تَنْشَأُ نَشْوًا: اِلَى حَاجَتِهِ: اپنی حاجت کے لئے جاتا۔	النِّسْيَانُ وَالنِّسْيَانَةُ: بہت بھولنے والا۔ النَّسِيُّ: بہت بھولنے والا۔ اپنی قوم میں شمار نہ ہونے والا۔	النِّسْمِ: نرم ہوا۔ مٹا ہوا راستہ۔ الاناسیم: لوگ (یہ نسیم کی جمع الجمع ہے) کہا جاتا ہے "مَاصِيِ الْاَناسِيمِ يَفْلُتُ" یعنی لوگوں میں اس کے مانند کوئی نہیں۔
اِنْشَاءً اِنْشَاءً: پرورش کرنا۔ نَشَأَ اللّٰهُ السَّحَابَةَ: گھٹا چڑھانا۔ تَنْشَأُ نَشْوًا: اِلَى حَاجَتِهِ: اپنی حاجت کے لئے جاتا۔	النِّسْيَانُ وَالنِّسْيَانَةُ: بہت بھولنے والا۔ النَّسِيُّ: بہت بھولنے والا۔ اپنی قوم میں شمار نہ ہونے والا۔	النِّسْمِ: نرم ہوا۔ مٹا ہوا راستہ۔ الاناسیم: لوگ (یہ نسیم کی جمع الجمع ہے) کہا جاتا ہے "مَاصِيِ الْاَناسِيمِ يَفْلُتُ" یعنی لوگوں میں اس کے مانند کوئی نہیں۔
اِنْشَاءً اِنْشَاءً: پرورش کرنا۔ نَشَأَ اللّٰهُ السَّحَابَةَ: گھٹا چڑھانا۔ تَنْشَأُ نَشْوًا: اِلَى حَاجَتِهِ: اپنی حاجت کے لئے جاتا۔	النِّسْيَانُ وَالنِّسْيَانَةُ: بہت بھولنے والا۔ النَّسِيُّ: بہت بھولنے والا۔ اپنی قوم میں شمار نہ ہونے والا۔	النِّسْمِ: نرم ہوا۔ مٹا ہوا راستہ۔ الاناسیم: لوگ (یہ نسیم کی جمع الجمع ہے) کہا جاتا ہے "مَاصِيِ الْاَناسِيمِ يَفْلُتُ" یعنی لوگوں میں اس کے مانند کوئی نہیں۔
اِنْشَاءً اِنْشَاءً: پرورش کرنا۔ نَشَأَ اللّٰهُ السَّحَابَةَ: گھٹا چڑھانا۔ تَنْشَأُ نَشْوًا: اِلَى حَاجَتِهِ: اپنی حاجت کے لئے جاتا۔	النِّسْيَانُ وَالنِّسْيَانَةُ: بہت بھولنے والا۔ النَّسِيُّ: بہت بھولنے والا۔ اپنی قوم میں شمار نہ ہونے والا۔	النِّسْمِ: نرم ہوا۔ مٹا ہوا راستہ۔ الاناسیم: لوگ (یہ نسیم کی جمع الجمع ہے) کہا جاتا ہے "مَاصِيِ الْاَناسِيمِ يَفْلُتُ" یعنی لوگوں میں اس کے مانند کوئی نہیں۔
اِنْشَاءً اِنْشَاءً: پرورش کرنا۔ نَشَأَ اللّٰهُ السَّحَابَةَ: گھٹا چڑھانا۔ تَنْشَأُ نَشْوًا: اِلَى حَاجَتِهِ: اپنی حاجت کے لئے جاتا۔	النِّسْيَانُ وَالنِّسْيَانَةُ: بہت بھولنے والا۔ النَّسِيُّ: بہت بھولنے والا۔ اپنی قوم میں شمار نہ ہونے والا۔	النِّسْمِ: نرم ہوا۔ مٹا ہوا راستہ۔ الاناسیم: لوگ (یہ نسیم کی جمع الجمع ہے) کہا جاتا ہے "مَاصِيِ الْاَناسِيمِ يَفْلُتُ" یعنی لوگوں میں اس کے مانند کوئی نہیں۔
اِنْشَاءً اِنْشَاءً: پرورش کرنا۔ نَشَأَ اللّٰهُ السَّحَابَةَ: گھٹا چڑھانا۔ تَنْشَأُ نَشْوًا: اِلَى حَاجَتِهِ: اپنی حاجت کے لئے جاتا۔	النِّسْيَانُ وَالنِّسْيَانَةُ: بہت بھولنے والا۔ النَّسِيُّ: بہت بھولنے والا۔ اپنی قوم میں شمار نہ ہونے والا۔	النِّسْمِ: نرم ہوا۔ مٹا ہوا راستہ۔ الاناسیم: لوگ (یہ نسیم کی جمع الجمع ہے) کہا جاتا ہے "مَاصِيِ الْاَناسِيمِ يَفْلُتُ" یعنی لوگوں میں اس کے مانند کوئی نہیں۔
اِنْشَاءً اِنْشَاءً: پرورش کرنا۔ نَشَأَ اللّٰهُ السَّحَابَةَ: گھٹا چڑھانا۔ تَنْشَأُ نَشْوًا: اِلَى حَاجَتِهِ: اپنی حاجت کے لئے جاتا۔	النِّسْيَانُ وَالنِّسْيَانَةُ: بہت بھولنے والا۔ النَّسِيُّ: بہت بھولنے والا۔ اپنی قوم میں شمار نہ ہونے والا۔	النِّسْمِ: نرم ہوا۔ مٹا ہوا راستہ۔ الاناسیم: لوگ (یہ نسیم کی جمع الجمع ہے) کہا جاتا ہے "مَاصِيِ الْاَناسِيمِ يَفْلُتُ" یعنی لوگوں میں اس کے مانند کوئی نہیں۔
اِنْشَاءً اِنْشَاءً: پرورش کرنا۔ نَشَأَ اللّٰهُ السَّحَابَةَ: گھٹا چڑھانا۔ تَنْشَأُ نَشْوًا: اِلَى حَاجَتِهِ: اپنی حاجت کے لئے جاتا۔	النِّسْيَانُ وَالنِّسْيَانَةُ: بہت بھولنے والا۔ النَّسِيُّ: بہت بھولنے والا۔ اپنی قوم میں شمار نہ ہونے والا۔	النِّسْمِ: نرم ہوا۔ مٹا ہوا راستہ۔ الاناسیم: لوگ (یہ نسیم کی جمع الجمع ہے) کہا جاتا ہے "مَاصِيِ الْاَناسِيمِ يَفْلُتُ" یعنی لوگوں میں اس کے مانند کوئی نہیں۔
اِنْشَاءً اِنْشَاءً: پرورش کرنا۔ نَشَأَ اللّٰهُ السَّحَابَةَ: گھٹا چڑھانا۔ تَنْشَأُ نَشْوًا: اِلَى حَاجَتِهِ: اپنی حاجت کے لئے جاتا۔	النِّسْيَانُ وَالنِّسْيَانَةُ: بہت بھولنے والا۔ النَّسِيُّ: بہت بھولنے والا۔ اپنی قوم میں شمار نہ ہونے والا۔	النِّسْمِ: نرم ہوا۔ مٹا ہوا راستہ۔ الاناسیم: لوگ (یہ نسیم کی جمع الجمع ہے) کہا جاتا ہے "مَاصِيِ الْاَناسِيمِ يَفْلُتُ" یعنی لوگوں میں اس کے مانند کوئی نہیں۔

نَشْوَاءُ او مِنْ نَشْوَاءٍ وہ بری لسل سے ہے۔ چھوٹے چھوٹے اونٹ۔ نَاشِي: اسم فاعل کی جمع۔ چڑھا ہوا بادل یا بادل کا وہ حصہ جو پہلے ظاہر ہو۔ ج نَشَأَ۔

النَّشِي: بادل کا وہ حصہ جو پہلے ظاہر ہو۔

النَّشَاةُ وَالنَّشِيَّةُ: نباتات کی نازک کونئیں۔ النَّشِيَّةُ مَعْنَى النَّاشِيَّةِ۔

النَّاشِي: فاعل جو ان کی قریب پہنچا ہوا لڑکا یا لڑکی۔ ج نَشَأَ وَنَشَأَ وَنَاشِيَّةٌ (خلاف قیاس) ہر وہ چیز جو رات کو ظاہر ہو۔ ج نَوَاشِي۔

النَّاشِيَّةُ نَاشِي: کامونٹ۔ دن کا ابتدائی حصہ۔ رات کے ابتدائی اوقات۔ سونے کے بعد اٹھنا۔ نو جوان لڑکی۔ ج نَوَاشِي۔

الْمَنْشَأُ: پیدا ہونے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "مَوْلِدِي وَمَنْشَأِي فِي بَيْتِي فَلَانٌ"۔

الْمَنْشَأُ وَالْمَنْشَأُ: بلد جَنْدَا۔ بلد نَشَانِ رَاہ۔

نَشِبٌ (س) نَشَبًا وَنَشُونًا وَنَشِيَّةً الشَّيْ فِي الشَّيْ: چمٹنا..... الْعَظْمُ فِي حَلْقِهِ: حلق میں ہڈی چمٹنا۔ کہا جاتا ہے "نَشِبَ فَلَانٌ مَنَشَبَ سَوْءٍ" فلاں ایسی چیز میں پھنس گیا جس سے رہائی ممکن نہیں "وَمَا نَشِبْتُ أَفْعُلَ كَذَا" یعنی میں ہمیشہ ایسا کرتا رہا "وَلَمْ يَنْشَبِ أَنْ مَاتَ" یعنی وہ فوراً مر گیا (..... نَشُونًا) الْحَرْبُ بَيْنَ الْقَوْمِ: گھمسان کی جنگ ہونا..... الْأَمْرُ فَلَانًا: لازم ہونا..... فِيهِ: خریدنا۔

نَشَبَةٌ وَأَنْشَبَةٌ فِي كَذَا: چمٹانا۔ چپاں کرنا۔ کہا جاتا ہے "أَنْشَبَ الْبَازِي مَحَالِيئَهُ فِي الْأَخِيذَةِ" باز نے چنگل شکار میں گھسا دیا۔

أَنْشَبَ الصَّيْدُ شَكَارِي نَشَاكَارِي: شکار کو چال میں پھنسا دیا۔

الرَّيْحُ: ہوا کا تیز ہونا اور ٹکری وغیرہ اڑانا۔

نَاشِيَةٌ مَنَاشِيَةُ الْحَرْبِ: کھلم کھلا جنگ کرنا۔

نَشِبَ فِيهِ: چمٹنا۔ کہا جاتا ہے "نَشِبَ فِيهِ"۔

قَلْبِهِ حُبُّ فَلَانٍ" اس کے دل میں فلاں کی محبت پیوست ہو گئی۔

إِنْشَبَ فِيهِ: چمٹنا..... الْحَخْبُ: ککڑی جمع کرنا۔

تَنَاشَيْتُوا: بعض کا بعض کے ساتھ چمٹنا۔

کہا جاتا ہے "تَنَاشَيْتُوا حَوْلَ الرَّسُولِ" لوگوں نے رسول کے ارد گرد بھیر لگائی۔

النَّشَبُ: مصل (..... والنَّشْبَةُ) جائیداد غیر منقولہ۔ مال ومویشی۔ النَّشَبُ: ایک درخت کا نام جس سے کمائیں بنائی جاتی ہیں۔

النَّشْبَةُ: مصل (..... والنَّشْبَةُ) کام میں پھنس کر رہائی نہ پانے والا مرد۔

نَشْبَةٌ: بھیر یا کاعلم جنس۔

النَّشَابُ: تیر۔ واحد نَشَابَةٌ۔ ج نَشَابِيْبٌ۔ النَّاشِبُ: فاعل تیروں والا۔ تیر انداز۔

النَّاشِيَّةُ نَاشِبٌ كَامُونُتٌ۔ تیر انداز لوگ۔ النَّشِبُ: چمٹنے والا۔

النَّشَابُ: بہت چمٹنے والا۔ تیر ساز و انداز۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ نَشَابٌ" تیر انداز مرد۔

قَوْمٌ نَشَابَةٌ: تیر انداز لوگ۔ النَّشَبُ: چمٹنے کی جگہ۔

النَّشْبَةُ: مال مویشی۔ کہا جاتا ہے بَسْرَةٌ مَنَشَبٌ: تیر کی مانند نقش و نگار والی چادر۔

نَشَجٌ (ض) نَشَجًا وَنَشِيحًا الْبَاسِكِي: روتے روتے پھینکی لگانا۔ نَشَجَتِ الْقَلْبُ: ہانڈی کا کھد کھدانا۔ نَشَجَ الضَّفْدَعُ: مینڈک کا کراتے وقت آواز دہرانا..... الْمُطْرِبُ: گویئے کا دو طرز کے سروں کے درمیان فاصل کرنا اور کھینچنا۔

النَّشَجُ: پانی بننے کی جگہ۔ ج اَنْشَاجٌ۔ النَّشِيحُ: مصل۔ آواز۔

عَسْرَةٌ نَشَجٌ: آسوکہ جس کے ساتھ آواز بھی ہو۔

نَشَجٌ (ف) نَشَجًا وَنَشُوخًا الرَّجُلُ: سیرابی سے کم پینا۔ سیر ہو کر پینا۔

النَّشُوخُ: تھوڑا پانی۔

النُّشْحُ: مصل لوگ۔ واحد نَشُوخٌ۔ النَّشَاحُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ: بھر کر چھلکنے والا برتن۔

نَشَدٌ (ن ض) نَشَدًا وَنَشَدَانًا وَنَشَدَةٌ الْضَّالَّةُ: گم شدہ کو ڈھونڈنا۔ تلاش کرنا۔

گم شدہ کی تشہیر کرنا..... فَلَانًا: پچھانا.....

اللَّهُ وَبِاللَّهِ تَسْمُؤِنَا..... نَشَدَ الرَّجُلُ: کسی سے اَنْشَدَكَ اللَّهُ: کہنا اور کہا جاتا ہے "نَشَدْتُكَ اللَّهُ الْأَفْعَلُ" اس سے مقصد یہ ہے کہ میں نے تم سے کوئی چیز طلب نہیں کی سوائے اس کے کہ تم یہ کرو "نَشَدَةُ عَهْدَةٍ" او وَغَدَةٌ" اس نے اس کو وعدہ یا دولا دیا۔

أَنْشَدَ الضَّالَّةُ: گم شدہ کے متعلق پوچھ پانچ کرنا۔ گم شدہ کی تشہیر کرنا۔ اَنْشَدَةُ الشَّيْءِ: شعر پڑھنا۔ اَنْشَدَ بِالْقَوْمِ: بھوک کرنا..... زَيْدًا وَلِزَيْدٍ: جواب دینا۔ کہا جاتا ہے "نَشَدْتُهُ فَأَنْشَدَنِي" میں نے اس سے پوچھا اس نے جواب دیا۔

نَاشِدَةٌ مَنَاشِدَةٌ وَنَاشِدًا: تسم کھانا۔ نَاشِدَةٌ الْأَمْرُ وَفِي الْأَمْرِ: متوجہ کرنا۔

تَنَشَدُ: الْأَخْيَارُ: اطلاع دینا۔

تَنَاشَيْتُوا: الْأَشْعَارُ: ایک دوسرے کے سامنے شعر پڑھنا۔

إِنْشَدَهُ: الشَّيْءُ: شعر پڑھنے کو کہنا۔ کہا جاتا ہے نَشَدَكَ وَنَشَدَكَ اللَّهُ إِلَّا فَعَلْتُ: یعنی میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اور اللہ کی قسم دے کر تم سے کہتا ہوں کہ تم یہ کرو۔

النَّاشِدُ: فاعل طلب کرنے والا۔ تشہیر کرنے والا۔ النَّاشِدُونَ: گم شدہ کو تلاش کر کے مالک تک پہنچانے والا۔

النَّاشِدَةُ: مصل۔ آواز۔ النَّاشِدُ: آواز کی بلندی (..... والنَّاشِدَةُ ج نَشَائِدٌ وَالنَّاشِدَةُ ج نَشَائِدٌ وَالنَّاشِدَةُ ج نَشَائِدٌ: شعر جس کو ایک دوسرے کے سامنے پڑھیں۔ نَشِيْدٌ الْأَنْشَادُ: بائبل کی ایک کتاب۔

النَّشَادُ: گم شدہ کو تلاش کرنے والا۔ النَّشَادِرُ وَالنَّوْشَادِرُ: نوسادر (دخیل) نَشْرٌ (ض ن) نَشْرًا النَّوْبُ: پھیلانا.....

النَّشَادُ: گم شدہ کو تلاش کرنے والا۔ النَّشَادِرُ وَالنَّوْشَادِرُ: نوسادر (دخیل) نَشْرٌ (ض ن) نَشْرًا النَّوْبُ: پھیلانا.....

النَّشَادُ: گم شدہ کو تلاش کرنے والا۔ النَّشَادِرُ وَالنَّوْشَادِرُ: نوسادر (دخیل) نَشْرٌ (ض ن) نَشْرًا النَّوْبُ: پھیلانا.....

النَّشَادُ: گم شدہ کو تلاش کرنے والا۔ النَّشَادِرُ وَالنَّوْشَادِرُ: نوسادر (دخیل) نَشْرٌ (ض ن) نَشْرًا النَّوْبُ: پھیلانا.....

النَّشَادُ: گم شدہ کو تلاش کرنے والا۔ النَّشَادِرُ وَالنَّوْشَادِرُ: نوسادر (دخیل) نَشْرٌ (ض ن) نَشْرًا النَّوْبُ: پھیلانا.....

النَّشَادُ: گم شدہ کو تلاش کرنے والا۔ النَّشَادِرُ وَالنَّوْشَادِرُ: نوسادر (دخیل) نَشْرٌ (ض ن) نَشْرًا النَّوْبُ: پھیلانا.....

النَّشَادُ: گم شدہ کو تلاش کرنے والا۔ النَّشَادِرُ وَالنَّوْشَادِرُ: نوسادر (دخیل) نَشْرٌ (ض ن) نَشْرًا النَّوْبُ: پھیلانا.....

النَّشَادُ: گم شدہ کو تلاش کرنے والا۔ النَّشَادِرُ وَالنَّوْشَادِرُ: نوسادر (دخیل) نَشْرٌ (ض ن) نَشْرًا النَّوْبُ: پھیلانا.....

الخَيْرُ: افشا کرنا..... الشُّي: بکھیرنا..... الْحَشْبُ: چیرنا..... عَنِ الْمَجْنُونِ او الْمُرِيضِ: منتر پھونکنا۔ نَشْرَتِ الرِّيحُ: بادل والے دن میں ہوا کا چلنا۔	النَّشْرَةُ: نُشْرُ: کا اسم مرہ۔ باوہم اشتہار۔ (مولدۃ) ج نَشْرَاتِ. النَّشْرَةُ: افسوں۔ منتر۔ النَّشْرَةُ: بکڑی کا براہ جو آ رہ کرتے وقت گرے۔
نَشْرَانِ (ن) نُشُورًا. الشَّجَرُ: پتے نکالنا۔ نَشْرَتِ أَوْزَاقِ الشَّجَرَةِ: پتوں کا بڑھنا اور پھیلنا..... الْأَرْضُ: ابر بہاری کے بعد سرسبز ہونا۔	النَّاشِرَةُ. النَّاشِرُ: کاموٹ۔ نَوَاشِرًا واحد۔ نَوَاشِرًا: ہاتھ کے رگ پٹھے کو کہتے ہیں۔ النَّشُورُ مِنَ الرِّيحِ: بادل اٹھانے والی ہوا میں۔ ج نُشُرُ.
نَشْرَانِ (ن) نُشُورًا وَنُشُورَ اللَّئِمَةِ الْمُؤْتَمِرِ: زندہ کرنا۔ نَشْرَ وَنَشْرَ الْمُؤْتَمِرِ: زندہ ہونا۔ صفت نَاشِرُونَ.	النَّشِيرُ: ازار۔ تہہ بند۔ کاٹ کر جمع کی ہوئی کھیتی۔ النَّاشِيرُ: بچوں کے سر مشق (جمع ہے اس کا واحد نہیں)
نَشْرَتِ (س) نُشْرًا الْمُوَأْبِي: رات میں چرنے کے لئے پھیلنا۔ خارش والے ہونا۔ نَشْرَ السُّوْبِ وَنَحْوَهُ: کپڑا پھیلانا..... عَنِ الْمُرِيضِ او الْمَجْنُونِ: بیمار یا دیوانہ پر منتر پھونکنا۔	النَّاشِيرُ: آ رہ۔ ج قَنَاشِيرُ. المُنْشَارُ: پتھیرا لکڑی جس سے گہوں وغیرہ کو بھوسے سے علیحدہ کرتے ہیں۔ ایک سمندری مچھلی جس کو أَبُو مِشَارٍ بھی کہتے ہیں۔
نَشْرَتِ اللَّئِمَةِ الْمُتَمِرِ: مُرَدِّهِ كَوِزْدِهِ كَرْنَا..... الْأَرْضُ: زمین کو پانی ڈال کر قابل زراعت بنانا..... الرَّجُلُ: ندی نکالنا۔ تَنْشَرُ الشُّي: پھیلنا۔	المُنْشُورُ: مفتح۔ کھلا ہوا شاہی فرمان۔ المُنْشَرُ: مصدر سیسی۔ کپڑا وغیرہ پھیلانے کی جگہ۔
إِنْتَشَرَ الشُّي: پھیلنا..... النَّهَارُ: دن چڑھنا الخَيْرُ: خبر کا فاش ہونا..... الْأَيْلُ: اونٹوں کا متفرق ہونا..... الرَّجُلُ: سفر شروع کرنا۔	المُنْشُورَةُ. المُنْشُورُ: کاموٹ۔ نخی و شریف عورت۔ الْيَشْوَارُ: جانوروں کا اصطبل۔
تَنَاشَرُوا. الْبَيَاتُ: کپڑوں کو باہم مل کے پھیلانا۔ اسْتَنْشَرَ الْخَيْرُ: خبر پھیلانے کو کہنا۔ النَّشْرُ: مض۔ عمدہ خوشبو یا بو۔ کہا جاتا ہے "لَهُ نَشْرٌ طَيِّبٌ" اس کی اچھی خوشبو ہے۔ اگنے کی ابتدا۔ خارش۔	نَشْرَ (ض ن) نُشُورًا فِي او عَنْ مَكَانِهِ: بلند ہونا..... الرَّجُلُ: بیٹھے ہوئے سے اٹھنا۔ اوچی جگہ میں جما کھانا..... الْقَوْمُ فِي مَجْلِسِهِمْ: ساتھیوں کے لئے سنا۔ اٹھ کھڑا ہونا۔ نَشْرَتِ نَفْسُهُ: گھبراہٹ سے دل دھڑکنا۔
النَّشْرُ وَالنَّشْرُ: بغیر سردار کے منتر لوگ۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ وَالنَّشْرُ او نَشْرًا" لوگ متفرق ہو کر آئے۔ النَّشْرُ: پھیلنا ہوا۔ کہا جاتا ہے "اللَّهُمَّ اِضْمُمْ نَشْرِي" اسے اللہ میرے متفرق امور کو جمع کر دے۔ النَّشْرُ وَالنَّشُورُ: مضم یومُ النَّشْرِ وَيَوْمُ النَّشُورِ: قیامت کا دن۔	نَشْرَتِ (ض ن) نُشُورًا الْمَرْأَةُ بِرُؤُوسِهَا وَمِنْهُ وَعَلَيْهِ: بیوی کا نافرمان ہونا۔ نفرت کرنا۔ بغض رکھنا۔ صفت نَاشِرٌ وَنَاشِرَةٌ ج نَوَاشِرُ. نَشْرَ بَعْلِهَا عَلَيْهَا وَمِنْهَا: شوہر کا ظلم کرنا۔ نخی کرنا۔ تکلیف دینا..... بِالْقَوْمِ فِي الْخُصُومَةِ: قوم کے ساتھ جھگڑا کرنے کے لئے اٹھ کھڑا ہونا۔
	النَّشْرَةُ: نُشْرُ: کا اسم مرہ۔ باوہم اشتہار۔ (مولدۃ) ج نَشْرَاتِ. النَّشْرَةُ: افسوں۔ منتر۔ النَّشْرَةُ: بکڑی کا براہ جو آ رہ کرتے وقت گرے۔

..... فَمِنْ عَمَلِهِ أَوْ إِلَى عَمَلِهِ: پھر تیار
چست ہونا۔ صفت نَاشِطٌ وَنَشِيطٌ۔

نَشِطَتِ الدَّابَّةُ: موٹا ہونا۔

نَشِطٌ (ض) نَشِطًا مِنَ الْمَكَانِ: نکلتا۔ مِنْ
بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ: عبور کرنا۔ کہا جاتا ہے "نَشِطٌ
بِهِمْ الطَّرِيقُ" راستہ ان لوگوں کو دلائیں
بائیں لے گیا۔

نَشِطٌ (ن) نَشِطًا الْخَبْلُ: رتی میں گرہ دینا
..... الْعُقْدَةُ: گرہ کو مضبوط کرنا..... الدَّلْوُ مِنْ
الْبُسْرِ: بغیر چرخی کے ڈول نکالنا..... زَيْدًا:
نیزہ مارنا۔ نَشِطَنُ الْخَيْتِ: سانپ کا ڈنسا۔
نَشِطُ الْخَبْلِ: رتی میں گرہ دینا..... ةُ إِلَى
أَوْفَى الْعَمَلِ: چست بنانا۔ جَرَأَتْ دَلَانًا۔
أَنْشَطُهُ: چست بنانا۔ اِنْشَطَ الرَّجُلُ:

چست لوگوں یا جانوروں والا ہونا۔
أَنْشَطَتِ الْخَيْتَ: سانپ کا ڈنسا۔ اِنْشَطَ
الْخَبْلُ: رتی میں گرہ دینا..... الْعُقْدَةُ أَوْ
الْعِقَالُ: گرہ کھولنا..... الْبَعِزُ مِنْ عِقَالِهِ:
اونٹ کو رہا کرنا۔ چھوڑنا..... الْكَلَامُ الدَّابَّةُ:
موٹا کرنا۔

تَنْشَطُ: بشاش بشاش ہونا..... لِلْعَمَلِ: تیار
ہونا اور چست ہو کر متوجہ ہونا۔ "تَنْشَطُ
السَّاقَةُ فِي سَبْرِهَا" تیز دوڑنا۔ تَنْشَطُ
السَّفَارَةَ: بیابان کو عبور کرنا۔

اِنْشَطَ الْخَبْلُ: رتی کو کھنکنے کے لئے کھینچنا
..... الْخَبْلُ: رتی کا کھلنا..... النَشِيطَةُ: بلا
قصد و ارادہ کے ہاتھ لگے ہوئے اونٹوں کو
ہانکنا..... السَّمَكَةُ: مچھلی کے سنے اتارنا
..... الشِّي: چھیننا مضبوط کرنا..... فَلَانًا إِلَى
كَذَا: چھیننا یا بلند کرنا۔ اِنْشَطَتْ
الْخَيْتَةُ: فَلَانًا: سانپ کا ڈنسا۔

اِنْشَطَ الْجِلْدُ: کھال کا سکرنا۔ جھری دار
ہونا۔

النَشِطُ: مص۔ جلدی اور تیزی کے ساتھ
ڈنگ مارنا۔

النَّاشِطُ: فا۔ چست۔ پھر تیار۔ جنگلی تیل جو
ایک جگہ سے دوسری جگہ پھرے۔ طَرِيقٌ

نَاشِطٌ: بڑی سڑک سے دائیں نکلا ہوا
راستہ۔

النَّاشِطَةُ النَّاشِطُ: کاموں ج نَاشِطَاتٌ
وَنَوَاشِطُ. والنَّوَاشِطُ مِنَ الْمَسَائِلِ:
بڑے مسئلے سے نکلے ہوئے مسائل واحد اس
کا نَاشِطُ: ہے۔

النَّشِيطُ: چست پھر تیار۔ چست اہل و عیال
والا یا چست جانوروں والا۔ ج نَشِاطُ
وَنَشَاطِي.

النَّشُوطُ: ایک قسم کی مچھلی۔ يَنْشُوتُ: گہرا
کنواں۔

يَنْشُوتُ النَّشِاطُ: کم گہرا کنواں جس
سے ڈول ایک ہی دفعہ کے کھینچنے میں نکل
آئے۔

النَّشِيطَةُ: النَّشِيطُ: کاموں ج۔ مال غنیمت
جو غازیوں کو راستہ میں ہاتھ لگ جائے۔
اونٹ جو بلا قصد و ارادہ کے ہاتھ لگ جائیں
اور ہانگے جائیں۔

الانْشُوطَةُ: گرہ جس کا کھولنا آسان ہو۔ کہا
جاتا ہے "مَا عَقَلْتُكَ بِانْشُوطَةٍ" یعنی
تمہاری دوستی کمزور نہیں ہے۔ ج اَنْشِيطُ.
الْمِنْشَطُ: بہت چست۔

الْمِنْشَطُ: خوش دلی۔ کہا جاتا ہے "اَفْعَلُوا
ذَلِكَ عَلَى الْمِنْشَطِ وَالْمَكْرَهَةِ" اس کو
خوش دلی اور ناراضی کے باوجود کرو۔

نَشَطٌ (ن) نَشُوطًا النَّبَاثُ: نباتات کا
مجموعہ ہونا۔

نَشَعٌ (ف) نَشَعًا الرَّجُلُ: سسکی لینا۔
الشِّي: جتنی سے کھینچنا..... الطَّيِّبُ: خوشبو

سوگھنا..... فَلَانًا الدَّوَاءُ: دوا منہ میں پکانا
..... ةُ الْكَلَامُ: تلقین کرنا۔ سوگھانا۔

نَشَعٌ (ف) نَشُوعًا: قریب الموت ہو کر
صحّت پانا۔

نَشِعٌ نَشَعًا بَكْدًا: مشتاق ہونا۔ فریفتہ ہونا۔
صفت مَنْشُوعٌ بِهِ.

اِنْشَعَهُ الدَّوَاءُ: منہ میں دوا پکانا..... ةُ
الْكَلَامُ: تلقین کرنا۔ سوگھانا۔ اِنْشَعُ:

ناک میں دوا پکانا۔ الشِّي: جتنی سے کھینچنا۔
النَّشُوعُ: ناک میں ڈالنے کی دوا۔ دوا جو
مریض کے منہ میں پکانی جائے۔ ہر وہ چیز
جو سانس کو پھلا دے۔

النَّاشِعُ: ابھر اہوا۔
النَّشَعُ: خراب مزے کا پانی۔

النَّشَاعَةُ: ہاتھ سے نکال کر پھینکی ہوئی چیز۔
الْمِنْشَعُ وَالْمِنْشَعَةُ: منہ یا ناک میں پکانے
کی دوا کا برتن۔

نَشَعٌ (ف) نَشَعًا الْمَاءُ: پانی بہنا..... ةُ
بِالرُّمُوحِ: نیزہ مارنا..... ةُ الْكَلَامُ: تلقین

کرنا۔ سوگھانا..... الصَّبِيُّ: بچے کے منہ میں
دوا پکانا..... الْمَاءُ: اوک سے پانی پینا
..... الرَّجُلُ: سسکی لینا یہاں تک کہ بے ہوشی
طاری ہو جائے۔

نُشِعَ الصَّبِيُّ: بچے کے منہ میں دوا پکانا یا جانا
..... بِالشِّي: مشتاق ہونا۔ فریفتہ ہونا۔
صفت مَنْشُوعٌ بِهِ.

اَنْشَعُ غَنَةً: طمچہ ہونا..... ةُ الْكَلَامُ: تلقین
کرنا۔ سوگھانا۔

تَنْشَعُ: سسکی لینا یہاں تک کہ بے ہوشی طاری
ہو جائے (.....) وَنَشَعٌ وَانْشَعُ الْكَلَامُ:
سسکھنا اور حاصل کرنا۔

النَّاشِعُ فَاجٍ نَشَعٌ مَوْتٌ نَاشِعَةٌ: ج
نَوَاشِعُ وَنَاشِعَاتُ: النَوَاشِعُ: وادی میں
پینے کی نالیاں۔

النَّشَفَةُ: لمبی لمبی سانسوں میں سے ایک
سانس۔ موت کے وقت کی بہت لمبی سسکی۔
ج نَشَعَاتُ.

النَّشُوعُ: ناک میں ڈالنے کی دوا۔ بچہ یا
مریض کے منہ میں پکانے کی دوا۔

الْمِنْشَعُ وَالْمِنْشَعَةُ: منہ یا ناک میں دوا
پکانے کا برتن۔

نَشَفٌ (ن) وَنَشَفٌ (ن) نَشَفًا الثَّوْبُ
الْعَرَقُ أَوْ الْحَوْضُ الْمَاءُ: کپڑے کا پسینہ کو
یا حوض کا پانی کو جذب کر لینا..... الْمَاءُ: ہی

الْأَرْضُ: جذب ہونا۔ تَنْشَفَتِ الْبُسْرُ: کنوئیں

نَشَفٌ (س) وَنَشَفٌ (ن) نَشَفًا الثَّوْبُ
الْعَرَقُ أَوْ الْحَوْضُ الْمَاءُ: کپڑے کا پسینہ کو
یا حوض کا پانی کو جذب کر لینا..... الْمَاءُ: ہی

الْأَرْضُ: جذب ہونا۔ تَنْشَفَتِ الْبُسْرُ: کنوئیں

نَشَفٌ (س) وَنَشَفٌ (ن) نَشَفًا الثَّوْبُ
الْعَرَقُ أَوْ الْحَوْضُ الْمَاءُ: کپڑے کا پسینہ کو
یا حوض کا پانی کو جذب کر لینا..... الْمَاءُ: ہی

الْأَرْضُ: جذب ہونا۔ تَنْشَفَتِ الْبُسْرُ: کنوئیں

نَشَفٌ (س) وَنَشَفٌ (ن) نَشَفًا الثَّوْبُ
الْعَرَقُ أَوْ الْحَوْضُ الْمَاءُ: کپڑے کا پسینہ کو
یا حوض کا پانی کو جذب کر لینا..... الْمَاءُ: ہی

الْأَرْضُ: جذب ہونا۔ تَنْشَفَتِ الْبُسْرُ: کنوئیں

کا پانی ختم ہوتا۔

نَشْف (ش) نَشْفًا الْمَاءَ: پانی کو چھتھرے وغیرہ سے خشک کر دینا۔

نَشْف الْمَاءِ: پانی کو چھتھرے وغیرہ سے خشک کر دینا۔ نَشَفَتِ النَّاقَةُ: زمانہ ولادت کے قرب کی وجہ سے کبھی تھن کا بھرا ہونا اور کبھی خشک ہونا۔ صفت مُنَشَفٍ: جھاگ والے دودھ والی ہوتا۔

أَنْشَفَهُ: جھاگ والا دودھ پلانا۔

تَنْشَفُ السُّوْبِ الْعَرَقِ: کپڑے کا پسینہ کو جذب کرنا۔ الرُّجُلُ: چھتھرے وغیرہ سے جسم پونچھنا۔

أَنْشَفَ: جھاگ والا دودھ پینا۔ الوَسْخُ وَنَحْوُهُ: میل وغیرہ صاف کرنا۔

النَّشْفُ: پانی کا جذب ہونا۔

النَّشْفَةُ وَالنَّشْفَةُ: تھوڑی چیز جو برتن میں باقی رہ جائے۔ النَّشْفَةُ: وہ چیز جو گرم گرم ہانڈی سے نکالی جائے اور کھائی جائے۔

النَّشْفَةُ: مٹھلیٹ النون والنشافة: جھانواں۔ ج نَشَفَ وَنَشَفَ وَنَشَفَ وَنَشَفَ: پانی پونچھنے کا کپڑا۔

النَّشْفَةُ وَالنَّشَافَةُ: پانی پونچھنے کا کپڑا۔ جھاڑاں۔

النَّشْفَةُ وَالنَّشَافَةُ: دودھ دوہنے کے وقت کے جھاگ۔ النَّشَافَةُ: جذب شدہ پانی۔ وہ چیز جو گرم گرم ہانڈی سے نکالی جائے۔

أَرْضٌ نَشِيفَةٌ: پانی جذب کرنے والی زمین۔

الْمِنْشَقَةُ: رومال۔ تولیہ (مولدہ)۔ ج نَشَافَ: وہ شخص جو روٹی کو دیگ کے سرے پر سے تر کر کے تبا کھائے۔

نَشِقَ (س) نَشَقًا وَنَشَقًا الرِّيحَ: بوسوگھنا۔

..... فِي الْحِجَابَةِ: پھندے میں پھنسا۔

أَنْشَقَهُ الْمَسْكُ وَنَحْوُهُ: مٹک وغیرہ سونگھانا۔ الطَّبْسِيُّ فِي الْحِجَابَةِ: ہرن کو جال میں پھنسانا اور کہا جاتا ہے "أَنْشَقَهُ"

الْحِجَابَةُ" اس کو جال نے پھنسا لیا..... ج النشوق: نسوار سونگھانا۔

تَنْشَقُ وَتَنْشَقُ وَاسْتَنْشَقَ الْمَاءَ فِي أَنْفِهِ: ناک میں پانی ڈالنا۔ تَنْشَقُ وَاسْتَنْشَقُ الرِّيحَ أَوْ النُّشُوقَ: بوسوگھنا۔

النَّشَقَةُ: بکری وغیرہ کی گردن کا پتہ۔ ج نَشَقَ: وہ شخص جو کسی کام میں پھنس جائے اور رہائی نہ پا سکے۔

النَّشَقُ وَالنَّشَقُ: سونگھنا۔ کہا جاتا ہے "زَابِحَةُ مَكْرُوهَةٌ النَشَقِ"۔

النَّشُوقُ: نسوار۔ ناک میں ڈالنے کی دوا۔ ہر دوا جو سونھی جائے۔

الْمَنْشَقُ: ناک۔ ج مَنْشَقَ: وہ ڈبیہ وغیرہ جس میں نسوار رکھیں۔

نَشَلُ (ن) نَشُولًا الرَّجُلُ: دہلا ہونا۔ نَشَلَتِ الْفَحْجَةُ: کم گوشت والی ہونا۔ صفت فاشلَةٌ۔

نَشَلُ (ض ن) نَشَلًا الشَّيْءُ: جلدی سے اچک لینا۔ جَمِينٌ لِينٌ..... السَّخَاتِمُ: انگوٹھی اتارنا۔ نَشَلَتِ الْحَيَّةُ الرَّجُلَ: سانپ کا ڈسنا۔ اللَّحْمُ: گوشت بغیر مسالہ کے پکانا۔ بغیر چھچھے کے ہاتھ سے نکالنا۔

أَنْشَلُ وَتَنْشَلُ اللَّحْمَ مِنَ الْقِدْرِ: گوشت کو ہانڈی سے نکالنا۔ مَا عَلَى الْعَظْمِ بِغَيْرِهِ: دانے سے چھڑا کر کھانا۔

النَّشَلُ: مصل۔ بغیر مسالہ کے پکا ہوا گوشت۔

النَّشَالُ: اکثر بغیر مسالہ کے گوشت پکانے والا۔ روٹی کو دیگ کے سرے سے تر کر کے تبا کھانے والا۔ گرہ کٹ۔ جیب کترا۔

النَّشِيلُ: کنوئیں کا پہلا پانی۔ تازہ دودھ۔ تیلی تلوار۔ بغیر چھچھے کے ہاتھ سے نکالا ہوا گوشت۔ بغیر مسالہ کے پکا ہوا گوشت۔

الْمَنْشَلَةُ: انگلی کا وہ حصہ جو انگوٹھی کے نیچے رہے۔

الْمِنْشَلُ وَالْمِنْشَالُ: کندی دار سب سے گوشت نکالیں۔ ج مَنْشَلٌ۔

نَشِمَ (س) نَشَمًا التُّورُ: تیل کا سیاہ و سفید داغوں والا ہونا۔ صفت نَشِمٌ۔

نَشِمَ اللَّحْمُ: گوشت کا بگڑ جانا۔ بو دار ہو جانا۔ الْأَرْضُ: زمین سے پانی کا رسنا۔

..... فِي فَلَانٍ: بدگوئی کرنا۔ فِي الشَّرِّ: برائی میں مشغول ہونا۔

اللَّهُ ذَكَرَ فَلَانٍ: بلند کرنا۔ شہرت دینا۔ (..... وَتَنْشَمُ) فِي الْأَرْضِ: شروع کرنا۔ تَنْشَمُ مِنْهُ عِلْمًا: حاصل کرنا۔ استفادہ کرنا۔

النَّشَمُ: مصل۔ ایک درخت کا نام جس سے کمان بناتے ہیں۔ کہا جاتا ہے "يَسِيدِي نَشْمَةٌ مِنَ الْجَبِينِ وَنَحْوُهُ" یعنی میرا ہاتھ بدبو دار ہے۔

النَّشَمُ وَالْمَنْشَمُ: ایک قسم کی خوشبو جس کا کوئٹا دشوار ہے۔ مَنْشَمٌ: ایک عطر فروش عورت کا نام کہ جب اس سے عطر لے کر لگاتے تھے تو لڑائی بہت زیادہ تیز ہو جایا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے یہ مثل مشہور ہے "أَشَامٌ مِنْ عَطْرِ مَنْشَمٍ" الْمَنْشَمُ: حَبٌ بلسان۔

نَشَنَشَ نَشْنَشَةَ الْجِلْدِ: کھال اتارنا۔ النَّسِيُّ: زور سے بنانا۔ النَّوْرُ: تیل کو ہانکنا دھنکارنا۔ النَّوْبُ: کپڑے اتارنا۔ السَّوْعَاءُ: برتن کو جھاڑنا۔ بکھیرنا۔

النَّسَبُ: لینا۔ نَشْنَشَتِ الْقِدْرُ: ہانڈی کا اُبال میں آواز نکالنا۔ نَشَنَشَ الرَّجُلُ: کام میں جلدی کرنا۔ اللَّحْمُ: گوشت کو جلدی کھانا۔ الجارية: جماع کرنا۔

تَنْشَنَشَ مَطَاوِعَ نَشَنَشَ الشَّجَرِ: درخت سے جھال اتارنا۔

النَّشْفَنَةُ: مصل۔ زرہ۔ کاغذ۔ نئے کپڑے وغیرہ کی کھڑکھڑاہٹ۔

النَّشْنَشُ وَالنَّشْنَشُ وَالنَّشْنَشِيُّ: عمل یا حرکات میں ہانکنا۔ أَرْضٌ نَشْنَشَةٌ: زمین شور۔

..... فِي الشَّرِّ: برائی میں مشغول ہونا۔

اللَّهُ ذَكَرَ فَلَانٍ: بلند کرنا۔ شہرت دینا۔ (..... وَتَنْشَمُ) فِي الْأَرْضِ: شروع کرنا۔ تَنْشَمُ مِنْهُ عِلْمًا: حاصل کرنا۔ استفادہ کرنا۔

النَّشَمُ: مصل۔ ایک درخت کا نام جس سے کمان بناتے ہیں۔ کہا جاتا ہے "يَسِيدِي نَشْمَةٌ مِنَ الْجَبِينِ وَنَحْوُهُ" یعنی میرا ہاتھ بدبو دار ہے۔

النَّشَمُ وَالْمَنْشَمُ: ایک قسم کی خوشبو جس کا کوئٹا دشوار ہے۔ مَنْشَمٌ: ایک عطر فروش عورت کا نام کہ جب اس سے عطر لے کر لگاتے تھے تو لڑائی بہت زیادہ تیز ہو جایا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے یہ مثل مشہور ہے "أَشَامٌ مِنْ عَطْرِ مَنْشَمٍ" الْمَنْشَمُ: حَبٌ بلسان۔

نَشَنَشَ نَشْنَشَةَ الْجِلْدِ: کھال اتارنا۔ النَّسِيُّ: زور سے بنانا۔ النَّوْرُ: تیل کو ہانکنا دھنکارنا۔ النَّوْبُ: کپڑے اتارنا۔ السَّوْعَاءُ: برتن کو جھاڑنا۔ بکھیرنا۔

النَّسَبُ: لینا۔ نَشْنَشَتِ الْقِدْرُ: ہانڈی کا اُبال میں آواز نکالنا۔ نَشَنَشَ الرَّجُلُ: کام میں جلدی کرنا۔ اللَّحْمُ: گوشت کو جلدی کھانا۔ الجارية: جماع کرنا۔

تَنْشَنَشَ مَطَاوِعَ نَشَنَشَ الشَّجَرِ: درخت سے جھال اتارنا۔

النَّشْفَنَةُ: مصل۔ زرہ۔ کاغذ۔ نئے کپڑے وغیرہ کی کھڑکھڑاہٹ۔

النَّشْنَشُ وَالنَّشْنَشُ وَالنَّشْنَشِيُّ: عمل یا حرکات میں ہانکنا۔ أَرْضٌ نَشْنَشَةٌ: زمین شور۔

النَّصِيحَةُ: اسم مصدر - اخلاص - خیر و صلاح کی طرف بلانا اور شر و فساد سے روکنا۔ ج نَصَائِحُ.

غُبُوثٌ نَوَاصِحٌ: لگا تار بارشیں۔
الْمُنْصَحُ وَالْمُنْصَحَةُ: سوئی۔

الْمُنْتَصِحُ: منع۔ تَوْبٌ مُنْتَصِحٌ: پونہ لگا ہوا یا سلا ہوا کپڑا اور کہا جاتا ہے "إِنَّ فِي تَوْبِهِ مُنْتَصِحًا" اس کے کپڑے میں سینے کی جگہ ہے۔

نَصْرُهُ (ن) نَصْرًا: مدد کرنا۔ هُ مِنْ وَعَلَى عَدُوِّهِ: دشمن سے نجات دلانا۔ کسی کے برخلاف مدد دینا۔ نَصْرَ الْغَيْثِ الْأَرْضِ: عالمگیر بارش ہونا۔ فَلَانًا: دینا۔

نَصْرَتِ الْأَرْضِ: بارش ہونا۔
نَصْرَةٌ: نصرانی بنانا۔

نَاصِرَةٌ مُنَاصِرَةٌ: ایک دوسرے کی مدد کرنا۔
تَنْصَرُ: نصرانی ہونا۔ تَنْصَرُ لَهُ: مدد کی کوشش کرنا۔

تَنْصَرُ الْقَوْمُ: باہم مدد کرنا۔ کہا جاتا ہے "تَنْصَرَتِ الْأَخْبَارُ" یعنی خبروں نے ایک دوسرے کی تصدیق کی۔

انْتَصَرَ: مدد کرنے میں غالب ہونا۔ کامیاب ہونا۔ خَالِمٌ سَاجِدٌ: دشمن سے بدلہ لینا۔ عَلَى خَضْبِهِ: غالب ہونا۔

انْتَصَرَهُ: مدد طلب کرنا۔ انْتَصَرَهُ: فریاد کرنا۔ فَلَانًا عَلَى فَلَانٍ: کسی کے برخلاف مدد کرنے کی درخواست کرنا۔

النَّصْرُ: معص۔ مددگار۔ کہا جاتا ہے "زَجَلْ نَصْرٌ وَقَوْمٌ نَصْرٌ" بمعنی زَجَلْ نَاصِرٌ وَقَوْمٌ نَاصِرُونَ جمع ناصِر کی جیسے زَكَبٌ جمع زَاكِبٌ کی۔ النَصْرُ بارش۔

النَّصْرَةُ: نصر کا اسم مرہ۔ کال بارش۔
النَّصْرَةُ: مدد اور بہترین اعانت۔ کال بارش۔

النَّصْرَانِيُّ: شہر ناصره کی طرف منسوب۔ وہ

رہنے کی درخواست کرنا۔
النُّصْتَةُ: خاموشی۔

نَصَحَ (ف) نَصْحًا وَنُصْحًا وَنُصَاخَةً وَنِصَاحَةً: نصیحت کرنا۔ مخلص ہونا۔ صفت نَاصِحٌ ج نَصَاحٌ وَنُصْحٌ کہا جاتا ہے "لَا أُرِيدُ مِنْكَ نَصْحًا وَلَا انْتِصَاحًا" یعنی میں نہیں چاہتا کہ تم مجھ کو نصیحت کرو اور نہ مجھے ناصح سمجھو۔

نَصَحَ (ف) نَصْحًا وَنُصْحًا الشَّيْءُ: خالص ہونا۔ صاف ہونا۔ تَوْبَتُهُ: پختہ توبہ کرنا۔ الْعَسَلُ: خالص طریقہ سے کرنا۔ الْعَسَلُ: شہد صاف کرنا۔ الشُّوبُ: کپڑا سینا۔ الْعَيْثُ الْبَلْدُ: اچھی طرح سے سیراب کر کے سبزہ زار کر دینا۔

نَاصِحَةٌ مُنَاصِحَةٌ: ایک دوسرے کو نصیحت کرنا۔
نَفْسُهُ بِالتَّوْبَةِ: خالص توبہ کرنا۔
النَّصْحُ الرَّايِعِيُّ الْأَيْبِلُ: سیراب کرنا۔

تَنْصُحٌ: بہت نصیحت کرنا۔ نصیحت کرنے والوں کے مشابہ ہونا۔ الشُّوبُ: کپڑا سینا۔

انْتَصَحَ: نصیحت قبول کرنا۔ فَلَانًا: خیر خواہ سمجھنا۔
انْتَصَحَهُ: خیر خواہ سمجھنا۔

النِّصَاحُ: دھاگہ۔ سِلْكٌ ج نُصْحٌ وَنِصَاحَةٌ.

النِّصَاحَاتُ: چیزے اس لئے کہ بعض کو بعض سے ملا کر بیٹے ہیں۔ پھندے۔ واحد نِصَاحَةٌ.

النَّصَاحُ: خالص شہد وغیرہ اور کہا جاتا ہے "زَجَلْ نَاصِحٌ الْجَبِيْبُ" یعنی صاف دل مرد۔

النَّاصِحُ وَالنِّصَاحُ وَالنَّاصِحِيُّ: درزی۔
النَّصِيحُ: خیر خواہ۔ نصیحت کرنے والا۔ ج نِصْحَاءُ.

النَّصُوحُ: نصیحت کرنے والا (مذکورہ مَوْنٌ) تَوْبَةٌ نَصُوحٌ: خالص توبہ۔

النِّصَابُ: اصل۔ مرجح۔ سورج غروب ہونے کی جگہ۔ ہر چیز کی ابتدا۔ چھری کا دستہ۔ مال کی وہ مقدار جس پر زکوٰۃ واجب ہو۔ ج نَصْبٌ.

النِّصِيبُ: حصہ۔ حوض۔ نصب کیا ہوا پھندا ج النِّصْبَةُ وَالنِّصْبَاءُ: نَصْبٌ. النِّصِيَّةُ: حوض کے ارد گرد کا پتھر۔ ج نَصَابٌ.

النَّاصِبُ: فا۔ تیز رفتار۔ ہم نصاب: تھکا دینے والا م..... عِنْدَ النُّحَاةِ: نصب دینے والا عالِمٌ ج نَوَاصِبٌ. النَّصَابُ: ہر کام میں خود گھسنے والا۔

الانصائب والنصاب: راستہ پر کھڑے کئے ہوئے نشانات۔

الانصب: سیدھے سیٹھوں والا۔ مَوْنٌ نِصْبَاءٌ. وَنَاقَةٌ نِصْبَاءٌ: ابھرے ہوئے سینہ والی اونٹنی۔

المنصب: اصل۔ مرجح۔ حسب و شرافت اور اسی سے ہے منصب: بمعنی عہدہ حکومت ج منصب کہا جاتا ہے "الفلان منصب" یعنی فلاں کے لئے علم مرتبہ ہے۔

المنصب: دیگدان آسنی۔ ج مناصب. المنصبة: رنج و کلفت۔ کہا جاتا ہے "عَيْشٌ ذُو مَنْصَبٍ" رنج و کلفت والی زندگی۔

المنصب: منع۔ اَسْنَانٌ مُنْصَبَةٌ: خوبصورت و ترتیب وار دانت۔

المنصوب: منع۔ وہ کلمات جن پر نصب ہو۔

المنصوبية المنصوب: کاموٹ۔ جیلر۔ کہا جاتا ہے "سَوِي لَهْ مَنْصُوبَةٌ" اس نے اس کے لئے جیلر سوچا۔

نَصَتْ (ض) نَصًّا وَانْصَتَّ وَانْتَصَتْ لَهْ: بات سننے کیلئے خاموش رہنا۔ انْتَصَتْ: خاموش کرنا۔

تَنْصَتٌ: خاموش رہنے اور سننے کی کوشش کرنا۔

انْتَصَتْ: خاموش کھڑا ہونا..... هُ: خاموش

لوگ جو حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے قہقہے میں - ن نضاری: مؤنث نصرانیہ۔

النصرانیۃ: نصاری کا دین۔

النصران: نصرانی۔ مؤنث نصرانیۃ۔

الناصر: فاعل ناصر و نضار و نضار و نضار

و انصار و الانصار علی الإطلاق: نبی کریم

ﷺ کے مددگار جو باشندگان مدینہ طیبہ

تھے۔ اور نسبت کے لئے انصاری کہا جاتا

ہے۔ الناصر: وادی کی طرف پہنچنے کی نالی۔

ن نواصر کہا جاتا ہے "مذہب الوادی

النواصر" وادی کو نالیوں نے بڑھا دیا۔

الناصرة الناصر کا مؤنث۔ و ناصره: ایک

شہر کا نام جو حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ

والسلام کی جائے پیدائش تھی اور نسبت کے

لئے ناصری۔

النصور والنصر: مددگار۔

النصیر: مددگار۔ ن نضراء و انصار۔

النصيرة: النصیر کا مؤنث۔ عیہ۔ ن

نصائر۔

النصيرية: غالی شیعوں کا ایک فرقہ جو شام

کے شمال میں رہتے ہیں اور اپنے اعتقادات

کو لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ واحد

نصیری۔

الناصر: ناسور۔ ن نواصیر۔

النصار: بہت مدد کرنے والا۔

الانصر: غیر محتون۔

المنصور: منفع۔ أرض منصورۃ: بارش

شدہ زمین۔

نضع (ف) نضعاً و نضاعاً الشیء:

خالص ہونا (..... نضعاً) الأمر: واضح

ہونا۔ ظاہر ہونا۔ کہا جاتا ہے "نضع الحق"

یعنی حق ظاہر ہو گیا۔ اللؤن: بہت سفید ہونا

..... الشارب: پیاسے کا پیاس بجھانا

الام بہ: جینا۔ کہا جاتا ہے "قیح اللہ اما

نصفت بہ" اللہ اس ماں کا بڑا کرے جس

نے اس کو جتا ہے (..... وانضع) بالحق:

حق کا اقرار کر کے ادا کرنا۔ انضع للشر:

برائی کے درپے ہونا۔

النضع والنضع والنضع: بہت سفید یا چمڑا

کپڑا۔

النضع: چمڑے کا فرش جس پر مجرم کو قتل کیا

جاتا تھا۔

الناصع والنصیع: خالص۔ صاف۔ کہا جاتا

ہے "أصفر ناصع أبيض ناصع حق"

ناصع" خالص حق۔ حسب ناصع: خالص

حسب۔ کہا جاتا ہے أحمر نضع: یعنی

خالص سرخ۔ حمرۃ نضاع: خالص

سرخی۔

القناصع: قضاہ حاجت کے مقامات۔ واحد

نضع۔

نصفہ (ن ض) نصفاً: آدھے تک پہنچنا۔

کہا جاتا ہے "نصف عمری" میں اپنی

آدھی عمر کو پہنچنا۔ "ونصف الكتاب" میں

آدھی کتاب تک پہنچنا۔ نصف النهار

و غیرہ: دن کا آدھے تک پہنچنا۔ نصفاً

ونصافاً و نصافاً و نصافاً و نصافاً)

الرجل: خدمت کرنا۔

نصف (ن) نصفاً و نصافاً و نصافاً

الشیء: آدھا لینا۔ القوم: آدھا وصول

کرنا۔

..... الشیء بین الرجلین: آدھا آدھا تقسیم

کرنا۔

..... القذح: پیالہ سے آدھا پینا (نصف ن)

نصوفاً) النخل: کچھ سرخ کچھ بزر کھجوروں

والا ہونا۔

نصف الشیء: آدھا آدھا کرنا۔ آدھا لینا۔

النہار: دن کا آدھا ہونا۔ رأس فلان: سر

کا آدھا سفید آدھا سیاہ ہونا۔ الرجل: ادا

ادھیر عمر والا ہونا۔ الجارية: اور رضی

أزحانا۔ السنخل: کچھ سرخ کچھ بزر

کھجوروں والا ہونا۔

انصف الشیء: آدھے تک پہنچنا۔ الشیء:

آدھا لینا۔ الرجل: النصف و رہونا۔

المسافر: آدھے دن چلنا۔ الخضمین:

انصاف سے فیصلہ کرنا۔ من فلان: پورا

حق وصول کرنا۔ فلانا: خدمت کرنا۔

النساء الإناء: آدھے تک بھرنا اور کہا جاتا

ہے "انصفت الإناء" آدھے تک

برتن کو پانی سے بھر دیا۔

ناصفة مناصفة: آدھا آدھا بانٹنا۔ ناصفة

المال: آدھا مال دینا۔

تنصف الأیسر: انصاف کرنے کی

درخواست کرنا۔ الشیب فلانا: تمام بال

سفید ہونا۔ الرجل: خدمت کرنا۔

فلان فلانا: خدمت کرنا۔ بھلائی طلب

کرنا۔ مطیع ہونا۔ الشیء: آدھا لینا اور کہا

جاتا ہے "تنصفاک بیننا" یعنی ہم نے تم کو

اپنے درمیان کر لیا۔

انصف النهار و غیرہ: دن کا آدھے تک

پہنچنا۔ سہمہ فی الصید: تیر کا شکار کے

جسم میں آدھا داخل ہونا۔ الشیء: آدھا

لینا۔

تنصف و انصف من فلان: انصاف

چاہنا۔ حق لینا۔ بدل لینا۔ تنصفت

و انصفت الجارية: اور رضی اور حنا۔

تناصف القوم: ایک دوسرے سے انصاف

کرنا۔

استنصف: انصاف کرنا۔ من فلان: پورا

حق وصول کرنا۔

النصف: بھگت النون: کسی چیز کا آدھا

انصاف۔

النصف: درمیانی عمر والا۔ کہا جاتا ہے

"رجل نصف" ن نصفون و انصاف

وامرأة نصف ن نصف و نصف

و انصاف اور کہا جاتا ہے "إن فلانة لعلی

نصفها" یعنی فلاں عورت آدھی جوانی پر ہے

(..... والنصف) انصاف و عدل۔

النصف و قد تثلث النون: انصاف رجل

نصف: درمیانی عمر والا اور اسی طرح

کہا جاتا ہے "امرأة نصف و رجال او

نِسَاءً نَصْفًا" واحد ہی کا لفظ مذکر مؤنث
واحد جمع سب میں مستعمل ہے۔

النَّصِيفُ: آدھا۔ ہر وہ چیز جو سر کو چھپائے
جیسے اوزھنی اور عمامہ وغیرہ..... مِنْ النَّصِيدِ:
دورگوں والی چادر۔

النَّاصِفُ: فاعل خادم نَصَفَ وَنَصَفَةَ
وَنَصَافًا.

الناصِفة: الناصف: کامؤنث۔ ناصِفةُ
المناء: نالی۔ ناصِفةُ

النَّصْفَانِ مِنَ الْآيَةِ وَنَحْوَهَا: نصف تک
بجرا ہوا برتن۔ مؤنث نَصْفِي.

الانصاف: بہت انصاف کرنے والا اور یہ
انصاف: اسے اسم تفضیل خلاف قیاس ہے۔

الْمُنْصِفُ وَالْمُنْصِفُ مِنَ الطَّرِيقِ:
راستے کا آدھا۔

الْمُنْصِفُ وَالْمُنْصِفُ: خادم۔ مؤنث۔
مَنْصُفَةٌ مَنَاهِفُ.

الْمُنْصِفُ: مَنَعُ - شراب جس کو پکا کر آدھا
کر دیا گیا ہو۔

مُنْصَفُ الشَّيْءِ وَمَنْصُفَةٌ: ہر چیز کا
درمیان۔

الْمُنْصَافُ مِنَ الرَّجَالِ: سڈول بدن کا
مرد۔ مَنَكانُ مُنْصَافٌ: برابر برابر اجزاء
والی جگہ۔

نَصَلَ (ن) نَصَلًا السَّهْمُ: تیر میں پیکان لگانا
لگانا..... السَّهْمُ: پیکان لگانا۔

نَصَلَ (ن) نَصَلًا وَنُصُولًا مِنْ كَذَا:
لگانا۔ کہا جاتا ہے "نَصَلَ السَّهْمُ مِنْ
نَصَلِهِ" تیر پیکان سے نکل گیا۔ "وَنَصَلَتْ
الْحَيْلُ مِنَ الْغُبَارِ" گھوڑے غبار سے نکل
گئے "وَنَصَلَ الطَّرِيقُ مِنْ مَوْضِعٍ كَذَا"
راستہ فلاں جگہ سے نکل گیا۔ نَصَلَتْ
السَّبْحَةُ: دائرہ سے خضاب کا رنگ زائل
ہونا..... اللَّسْعَةُ أَوْ لَحْمَةٌ: ڈنگ کا اثر اتر
جانا۔ وَنَصَلَ بِحَقِّي صَاعِرًا: نکالنا..... مِنْ
بَيْنِ الْجِبَالِ: ظاہر ہونا..... النَّاقَةُ: اونٹوں
سے آگے بڑھ جانا۔

نَصَلَ وَأَنْصَلَ السَّهْمُ: تیر میں پیکان لگانا
وَأَنْصَلَ السَّهْمُ: پیکان جدا کرنا۔ أَنْصَلَ
الشَّيْءَ مِنَ الشَّيْءِ: نکالنا۔

تَنْصَلُ الشَّيْءُ: نکالنا۔ پسند کرنا..... الرَّجُلُ:
کسی کی ساری چیزیں لے لینا۔ تَنْصَلُ إِلَيَّ
فَلَانٌ مِنَ الْجَنَابَةِ: کسی کے پاس اپنے آپ
کو بری کرنا..... مِنْ كَذَا: لگانا..... اللَّحْيَةُ:
دائری سے خضاب کا رنگ زائل ہونا.....

كَمَدَ فَلَانٌ رَجْعًا وَنَحْمَ زَائِلٌ هُوَا -
انْتَصَلَ السَّهْمُ: پیکان لگانا۔
تَنَاصَلٌ: لگانا۔

اسْتَنْصَلَهُ: نکالنا۔ اسْتَنْصَلَتْ الرَّيْحُ
الْيُسُ: جز سے اکھیرنا۔

النَّصْلُ: مَصٌ - پیکان۔ چاقو کا پھل اور بسا
اوقات تلوار کو بھی نَصْلٌ کہتے ہیں۔ رَجٌ
بِصَالٍ وَأَنْصَلَ وَنُصُولٌ وَنَصَلَ الزَّاسُ:
سر کا بالائی حصہ۔ اور کہا جاتا ہے "مِعْغُولٌ
نَصَلَ" کدال جس کا دستہ نکلا ہوا ہو۔
النَّضْلَانُ: پیکان اور بھالا۔
النَّضْلَةُ: ایک پیکان۔

النَّصِيلُ: کلہاڑا۔ سر کا بالائی حصہ۔ تالو۔
نُحْدِي کے نیچے گردن اور سر کا جوڑ۔ بھوسہ
اور مٹی سے صاف۔ گیہوں۔ وادی کی ایک
شاخ۔ نَصِيلُ الْحَجَرِ: پتھر کی سطح۔ رَجٌ
نَصَلَ النَّصِيلَ وَالْمَنْصَلَ وَالْمَنْصَالُ: لمبا
پتھر جس سے کوٹنے کا کام لیا جائے۔

الْمُنْصَلُ وَالْمَنْصَلُ: تلوار۔ رَجٌ مَنَاصِلُ.
مُنْصَلُ الْأَنْبِيَةِ وَمُنْصَلُ الْإِلَاحِ: نام ماہ
رجب کا۔

النَّصْمَةُ: تصویر جس کی تعظیم کی جائے۔
نُصْنَصُ البَحْرِ: اٹھنے کے لئے دونوں زانو
زمین میں لگانا..... الشَّيْءُ: لانا..... فِئِي
مَشْبِيهِ: چلنے میں جھومنا۔

حَيْثُ نَصْنَصُ: بہت حرکت کرنے والا
سانپ۔

نَصَا يَنْصُو نَصْوًا وَأَنْصَى الرَّجُلُ: پیشانی
کے بال پکڑنا۔ نَصَبَتِ الْمَاشِطَةُ الْمَرْأَةَ:

پیشانی کے بالوں میں کھینچی کرنا۔ نَصَا فَلَانٌ
الْقَوْبَ: اُتارنا رُوڈور کرنا۔

نَاصِي نِصَاءً وَمُنَاصَاةَ الرَّجُلِ: ایک
دوسرے کے پیشانی کے بال پکڑنا۔ نَاصِي
الشَّيْءِ الشَّيْءُ: متصل ہونا۔

تَنَصَّى الرَّجُلُ الْقَوْمَ: قوم کی بہترین عورت
سے شادی کرنا۔ تَنَصَّبَتِ الْمَرْأَةُ: پیشانی
کے بالوں میں کھینچی کرنا۔ تَنَصَّى الشَّيْءُ
بِالشَّيْءِ: متصل ہونا۔

تَنَاصَى الْقَوْمُ: جھگڑے میں ایک دوسرے
کے پیشانی کے بالوں کو پکڑنا..... الْأَعْضَانُ
وَنَحْوُهَا: ٹہنیوں کا ہوا چلنے کے وقت قریب
ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے اُچھٹنا۔

النَّصُ: مَصٌ - پیٹ کا درد۔

النَّاصِيَةُ: پیشانی یا پیشانی کے بال جبکہ لمبے
ہوں۔ رَجٌ نَوَاصٍ وَنَاصِيَاتٌ اور کہا جاتا
ہے "أَذَلَّ فَلَانٌ نَاصِيَةَ فَلَانٍ" یعنی فلاں
نے فلاں کی اہانت کی۔ نَوَاصِيَةُ النَّاسِ:
قوم کے بڑے بڑے لوگ۔ عمائد.

النَّصْتِيُّ: دو وادیوں کے ملنے کی جگہ۔ دو
وادیوں کے بالائی حصہ کے ملنے کی جگہ۔

أَنْصَى النِّصَاءَ الْمَكَانَ (پائی) بہت نصی
والی ہونا (دیکھئے لفظ نصی)

أَنْصَى النِّصَاءَ الشَّعْرَ: بال کا طویل ہونا۔
..... الْحَجَلُ أَوْ الْأَرْضُ: پہاڑ یا زمین کا بلند
ہونا..... الشَّيْءُ: چننا۔

النَّصِيُّ: ایک عمدہ قسم کا چارہ۔ واحد نَصِيَّةٌ رَجٌ
أَنْصَاءٌ رَجٌ أَنْصَاءٌ. النَّصِيُّ: گردن کی بڑی رَجٌ
أَنْصِيَّةٌ.

النَّصِيَّةُ: بمعنی نصی..... مِنْ الْقَوْمِ أَوْ الْإِبِلِ
وَعِغْرِهَا: برگزیدہ و عمدہ۔ کہا جاتا ہے "هَذِهِ
نَصِيَّتِي" یہ میرا عمدہ مال ہے۔ النَّصِيَّةُ:
بقیہ۔ رَجٌ نَصِيَّةٌ وَرَجٌ أَنْصَاءٌ وَأَنْصَاءٌ.

نَصَّ (ض) نَصًّا وَنَصِيْمًا الْمَاءَ: تھوڑا
تھوڑا بہنا یا رستا۔ نَصَّ مَالَهُ: سامان کے بعد
نقدی ہونا..... الشَّيْءُ: ظاہر کرنا..... الطَّابِرُ
جَنَاحِيهِ: پرندوں کا بازوؤں کو بلانا.....

الغُودُ: ککڑی سے جلنے میں دوسرے سرے پر پانی لکنا..... الْقِرْبَةُ مِنْ شِدَّةِ الْمَلَا: منگ کا زیادہ بھر جانے سے پھٹنا۔

نَضَّ (ض) نَضِيضًا الْأَمْرُ: ممکن ہونا۔ کہا جاتا ہے "مَانَسٌ بِيَدِي مِنْهُ شَيْءٌ" یعنی مجھ کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ "وَأَخَذَ مَا نَضَّ لَكَ مِنْ ذَبْنٍ أَوْ ثَمَنٍ" قرض یا قیمت سے جو کچھ آسانی سے جلدی وصول ہوئے لو۔

نَضَّضَ الرَّجُلُ: بہت درہم و دینار والا ہونا..... الشَّيْءُ: ہلانا۔

أَنْضَ وَتَنْضَضَ الْحَاجَةُ: پورا کرنا۔

تَنْضَضَ وَاسْتَنْضَضَ حَقَهُ مِنْ فُلَانٍ: تھوڑا تھوڑا کر کے وصول کرنا۔ تَنْضَضَ فُلَانًا: برا بیچنا۔ آکسانا۔ اسْتَنْضَضَ الْمَغْرُوفُ أَوْ الْخَيْرُ: تھوڑا تھوڑا کر کے فائدہ حاصل کرنا۔

النَّضُّ: مصل۔ درہم و دینار۔ کہا جاتا ہے "اسْتَخْلَصَهُ مِنْهُ نَضًّا" اس نے اس سے نقد حاصل کیا۔ امر مکروہ۔ کہا جاتا ہے "اتسى بأمرٍ نَضٍّ" اس نے امر مکروہ کیا۔ رَجُلٌ نَضٌّ الْمَلْحَمُ: کم گوشت والا آدمی۔

النَّضِيُّ: فادہ۔ درہم و دینار۔ کہا جاتا ہے "أَمْرٌ نَاضٌ" یعنی امر ممکن "وَمَاءٌ نَاضٌ" دیر تک باقی رہنے والا پانی۔

النَّبَضُ: تھوڑا تھوڑا فائدہ حاصل کرنا۔

النَّبَضَةُ مِنَ الْمَاءِ وَغَيْرِهِ: بقیہ۔ تھوڑی سی چیز۔ نَبَضَةُ الرَّجُلِ: مرد کا آخری بچہ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ نَبَضَةُ أَبِيئِهِ" وہ اپنے ماں باپ کا آخری لڑکا ہے۔

النَّبَضُ: امم بالضمون نَبَضَةٌ: پانی تھوڑا تھوڑا نکلے۔

النَّبِيضُ: مصل۔ تھوڑا سا پانی وغیرہ۔ نَبَضُ اور کہا جاتا ہے رَجُلٌ نَبِيضٌ الْمَلْحَمُ: کم گوشت والا مرد۔ "وَجَاءَ الْقَوْمُ بِالْقَضَى نَبِيضِيهِمْ" قوم اپنی انجھالی جماعت تک کو لائی۔

النَّبِيضَةُ: تھوڑی بارش۔ جَابِضَةٌ وَنَضَائِضٌ اور کہا جاتا ہے "جَاءَ وَأَبْقَضَى نَبِيضِيهِمْ" لوگ آخری جماعت تک لائے "وَابِلٌ نَبِيضَةٌ وَنَضَائِضٌ" پیا سے اونٹ جو سیراب نہ ہوں۔

النَّبَائِضُ: گرم پتھر پر گوشت بھوننے کی آواز۔ واحد نَبِيضَةٌ.

نَضَبَ (ن) نَضْبَ الْمَاءِ: جاری ہونا۔ بہنا۔ نَضَبَ غَمْرُهُ: ختم ہونا۔

نَضَبَ (نض) نَضْبُونَا الْمَاءِ: پانی کا زمین میں اترنا۔ خشک ہونا..... عَنِ الشَّيْءِ: کشادہ ہونا۔ کہا جاتا ہے نَضَبَ عَنْهُ الْخَمْرُ: یعنی پانی خشک ہو گیا..... الْخَمْرُ: کم ہونا..... عَيْنُهُ: آنکھ کا دھس جانا۔ نَضَبَتِ الْمَفَارِزُ: بیابان کا دور ہونا۔

نَضَبَ الْقَوْمُ: دُور ہونا..... فُلَانٌ: مرنا اور کہا جاتا ہے "نَضَبَ مَاءٌ وَجْهَهُ" یعنی وہ بے شرم ہوا..... فُلَانٌ الْتَوْبُ: کپڑا اتارنا۔

نَضَبَ الْمَاءِ: پانی کا زمین میں جذب ہونا۔ نَضَبَتِ النَّاقَةُ: اونٹنی کا دودھ کم ہونا۔

أَنْضَبَ الْقَوْمُ: کمان سے آواز نکلنے کے لئے تانت کو کھینچنا۔

النَّاضِبُ: فادہ۔ غَلِيظٌ نَاضِبٌ: خشک شدہ تالاب۔ مَسْكَانٌ نَاضِبٌ: دُور کی جگہ۔ نَضِبُ.

النَّضْبُ: ایک خاردار درخت جس کی ککڑی سفید ہوتی ہے اور دیکھنے میں خشک معلوم ہوتی ہے اگرچہ تر ہی کیوں نہ ہو اور اس درخت پر گرگٹ بہت رہتے ہیں۔ ج تَنَاضِبُ.

نَضِجَ (س) نَضِجًا الثَّمَرُ أَوْ اللَّحْمُ: پھل یا گوشت کا پکنا۔ مَعَتِ نَاضِجٌ وَنَضِجَ (..... وَنَضِجَتْ) النَّاقَةُ بِوَلَدِهَا: اونٹنی کا وقت ولادت گزار دینا اور بچہ نہ دینا۔

أَنْضَجَ الثَّمَرُ أَوْ اللَّحْمُ: پھل یا گوشت پکانا۔

إِسْتَنْضَجَ الْكِرَاعُ أَيَّ يَدَا الشَّاةِ: بکری

کے پائے پکانا۔

النُّضْجُ وَالنُّضْجُ: پھل۔ کہا جاتا ہے "هُوَ نَضِجُ الرَّأْيِ" یعنی وہ مضبوط رائے والا ہے وَأَمْرٌ مُنْضَجٌ: مضبوط معاملہ۔

الْمِنْضَاجُ: گوشت بھوننے کی سیخ۔

نَضَحَ (فض) نَضَحًا الثَّيْبُ بِالْمَاءِ: پانی چھڑکنا..... عَلَيْهِ الْمَاءُ: پانی چھڑکنا

..... الْجِلْدُ: کھال تر کرنا..... غَطَشَهُ: پیاس بجھانا۔ آسودگی سے کم پینا..... التَّجِيرُ الْمَاءِ: کھیت میں ڈالنے کے لئے نہریا کنوئیں سے

لانا..... فُلَانًا بِالسَّبِيلِ: تیرا انداز کرنا۔ نَضَحَ عَنْ نَفْسِهِ: مدافعت کرنا۔ نَضَحَ الزَّرْعُ: کھیتی کا دانہ دار ہونا..... الشَّجَرُ: پتے نکلنے کے لئے پھٹنا..... السَّخْلُ: پانی لانے والی اونٹنی سے پانی لاکر سیراب کرنا۔

نَضَحَ (ف) نَضْحًا وَتَنْضَاحًا الْإِنَاءُ: برتن کا کھینچنا..... الْقَرَسُ: پینہ والا ہونا۔ نَضَحَتِ الْعَيْنُ: آنسو بہانا..... السَّمَاءُ الْقَوْمُ: برساتا۔

أَنْضَحَ الزَّرْعُ أَوْ الشَّجَرُ: بمعنی نضح..... عَرَضَ فُلَانٌ: آلودہ کرنا۔ خراب کرنا۔

نَاضِحٌ مَنَاضِحَةٌ: عن کذا: مدافعت کرنا۔

إِنْتَضَحَ الْمَاءُ عَلَيْهِ: پانی چھڑکا جانا.....

وَاسْتَنْضَحَ الْمَتَوَاضِعُ: وضوء کے بعد شرمگاہ پر پانی چھڑکنا۔

تَنْضَحَتِ وَتَنْضَحَتِ الْعَيْنُ: آنسو بہانا۔

إِنْتَضَحَ مِنْ كَذَا: میزا رہنا۔

النُّضْحُ: مصل۔ پانی وغیرہ کا چھڑکاؤ۔ پانی جس سے کھیت سیراب کیا جائے۔ النُّضْحُ:

ہر وہ چیز جو پانی کی طرح رقیق ہو۔ ج نَضُوحٌ وَأَنْضُحَةٌ.

النُّضْحُ: حوض۔ ج نَضُوحٌ وَأَنْضَاحٌ.

النُّضِيجُ: حوض۔ پینہ۔ ج نَضِجٌ.

النَّضَائِجُ: فادہ۔ اونٹ جس پر پانی سیراب کرنے کے لئے لایا جائے۔ مَوْنَتٌ نَاضِجَةٌ. ج نَوَاضِجٌ: بارش۔ پانی چھڑک کر سیراب کی ہوئی جگہ۔

<p>نضال۔ النضال: مصیبت۔ بلا سختی۔ تَضَنُّصُ الرَّجُلِ: بہت روپے پیسے والا ہونا لِسَانُهُ: حرکت دینا..... کرتا۔ النضاض والنضاضة: من الحيات زبان بلانے والا سانپ۔ ایک جگہ میں نہ رہنے والا سانپ۔ فی الفور ہلاک کرنے والا سانپ۔ نضاً ينضون نضواً: السيف من غمده تلواری کو میاں سے سوتتا..... الثوب عنده: کپڑا اتارنا..... الرجل من ثوبه: بنگا کرتا البلاد: ملے کرتا۔ نضاً الجرح: زخم کی سوجن اترنا..... السماء: پانی کا جذب ہونا السيف: تلوار کا پار ہونا..... نضواً ونضياً: الفرس الخيل: آگے بڑھ جانا (..... نضواً ونضواً) الخضاب: رنگ اتر جاتا۔ انضى انضاء البعير: اونٹ کو دلا کرتا۔ الثوب: کپڑا بوسیدہ کرنا..... فلاتنا: دہلا جانور دینا۔ نضى نضياً: ثوبه عنده: کسی کا کپڑا اتارنا۔ تنضى البعير: اونٹ کو دلا کرتا۔ انضى انضاء السيف: تلوار کو میاں سے سوتتا..... الثوب: کپڑا بوسیدہ کرنا۔ النضو: دہلا جانور مؤنث نضوة: بوسیدہ کپڑا۔ کثرت تیر اندازی کی وجہ سے خراب شدہ تیر۔ باریک تیر۔ لگام کا لوہا۔ ج انضاء۔ النضارة من الخضاب: چھڑایا ہوا خضاب۔ کہا جاتا ہے "اعطيتي نضارة جنائیک" عضو سے جنا کے چھڑائے ہوئے کو منجھ دو۔ النضی: دہلا جانور۔ بغیر پیکان اوپر کے تیر من السهم: ہر اور پیکان کے درمیان کا حصہ ج انضیة۔</p>	<p>الثوب: کپڑا اتارنا..... وانضى وانضى) الثوب: کپڑا بوسیدہ کرنا۔ پرانا کرتا۔ نط (ن) نطاً الشئ: بانہٹنا۔ کھینچنا۔ نط (ض) نطاً: بکواس کرنا..... فی الأرض جانا..... نطيطاً: بھاگنا۔ پھاندنا۔ اچھلنا۔ النطاط: بک بک کرنے والا۔ بہت سز کرنے والا۔ کودنے والا۔ لغو دعویٰ کرنے والا۔ النطيط: مہم۔ مکان نطيط: ڈور کی جگہ۔ أرض نطيطة: ڈور والی زمین۔ عقبة نطاء: ڈور کی گھاٹی۔ الانط: ڈور کا سفر۔ ج نطط. نطبة (ن) نطبا وانطبة: انگلی سے کان پر مارنا۔ نطبة مناطبة: برا بھانت کرنا۔ اسانا۔ جھڑا کرتا۔ انطت أذنه: انگلی سے کان پر مارنا۔ النطبة: چھننے کا سوراخ۔ ج نواطب. النطاب: سر۔ گردن کی رگ۔ المنطبة والمنطبة: چھننا۔ المنطبة: بے وقوف۔ نطحة (ف ض) نطحا الثور ونحوه: تیل کا بیگلوں سے مارنا۔ نطح فلانا: دنگ کرنا۔ بنانا۔ نطحة نطاحا ومناطحة: بیگلوں سے مارنا۔ انطح وانطح الكبشان: میڈھوں کا ایک دوسرے کو سیٹک مارنا۔ نطاحت الأمواج أو السؤل: موج یا سیلاب کا آہیں میں ٹکرانا۔ النطاح: فا۔ پرند یا وحش جانور جو سامنے سے آئے اور یہ "قعيد" کے خلاف ہے۔ کہا جاتا ہے "نطاح نطاح ولا تخبط" یعنی اس کے پاس کچھ نہیں۔ نطاح سے مراد بھیڑ بکرا، بکرا، اور خنط۔ سوانث النطاح</p>	<p>منازل قمر میں سے دو ستاروں کا نام۔ النطح: مہم۔ منازل قمر میں سے دو ستار وں کا نام۔ النواطح: سختیاں۔ النطحة: نطح: کا اسم مرہ۔ لڑائی۔ النطیح: سیٹک مارا ہوا۔ سیٹک مارنے سے مر اہوا۔ منوس۔ گھوڑا جس کی پیشانی میں دو دائرے ہوں۔ مؤنث نطیحة۔ ج نطخی ونطایح۔ النطاح: بہت سیٹک مارنے والا۔ سیٹک مارنے کا عادی۔ نط (ن) نطراً ونطارة: الكرم او السورع: اگور یا کھیت کی تابھالی کرنا۔ یاغبانی کرنا۔ النطارة: مہم۔ یاغبانی کا پیشہ۔ النطار والنطور: یاغبان۔ اگور یا کھیت کا نگہبان۔ ج نطار ونطارة ونواطير ونطراء۔ النطار: اچکا (جو کھیت میں پرندوں اور جانوروں کو ڈرانے کے لئے کھڑا کیا جاتا ہے)۔ نطرون: پورہ ارٹھی۔ النطور: الماس کا زبور جو چوتھیں پیشانی پر سجاتی ہیں۔ نطس (س) نطسا: عالم ہونا۔ ماہر ہونا۔ تنطس: گفتگو اور لباس وغیرہ میں احتیاط کرتا۔ امور میں غور و فکر کرنا اور خوب تحقیقات کرنا۔ کہا جاتا ہے "تنطس الأخبار وعن الأخبار" یعنی اس نے تحقیقات کی۔ النطس والنطس والنطس: عالم گفتگو اور لباس وغیرہ میں احتیاط کرنے والا۔ النطيس والنطاسی والنطاسی: عالم۔ ماہر طبیب۔ النطس: ماہر اہلباء۔ النطسة: بہت احتیاط کرنے والا۔ النطاس: جاسوس۔ نطعة نطاعاً والنطعة: استنطع لثوبه: رنگ</p>
--	--	--

فَلَانٌ خُبْكُ النَّطَاقِ“ یعنی فلاں بخش جانے کے لئے یا کام کرنے کے لئے مستعد ہوا۔ النَّطَاقِ: کپڑے کا ایک ٹکڑا جس کو عورتیں کمر پر باندھتی ہیں اور اس کا بالائی حصہ نچلے حصہ پر اور اچھا حصہ زمین تک لٹکتا رہتا ہے۔ ج نطق۔

نَطَاقُ الْجُوزَاءِ: جوزا کے درمیان کے تین ستارے جن کو عرب نظم بھی کہتے تھے اور یہ انتظام والہام کے لئے شرب النحل ہے۔

النَّطَاقَةُ: پرچہ۔ پرزہ۔ اس وجہ سے کہ وہ لکھے ہوئے کو بتاتا ہے۔

النَّاطِقُ: قاصد۔ عرب کا قول ”الإنسان حیوانٌ ناطق“ یعنی انسان عاقل ہے۔ کسب ناطق: واضح کتاب۔

النَّاطِقَةُ: الناطق: کا مؤنث۔ کمر۔ النفس الناطقة: نفس انسانی۔

النَّاطِقُ: مفسر۔ گفتگو اور سمجھی انسان کے علاوہ کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے سَمِعْتُ مَنْطِقَ الطَّيْرِ: علم المنطق: ایک علم عملی کا نام جس کو میزان بھی کہتے ہیں اور یہ وہ علم ہے جو ذہن کو خطا فی الفکر سے بچائے۔

المنطقی: علم منطقی جاننے والا۔

المنطق والمنطقية: پکا جو کمر پر باندھا جائے۔ ج مناطق اور منطق سے فعل کا اختلاف کیا ہے۔ کہتے ہیں لمنطق: بمعنی پکا باندھنا جیسے مذرعة سے تمذرع اور مذبذبل سے تمذبذبل۔

تَمَنَّنَطِقُ: علم منطقی حاصل کرنا اور اسی سے بعض کا قول ہے ”مَنْ تَمَنَّنَطِقُ فَفُذْ“

تَمَنَّنَطِقُ: جس نے علم منطقی سیکھا وہ زندہ رہے ہو گیا۔ مِنْطَقَةُ الْجُوزَاءِ: تین ستاروں کے نام اور مِنْطَقَةُ الْعَوَاءِ: ایک دوسرے ستارے کا نام ہے۔

المنطقی والمنطقی: بیخ۔

المنطق: مفسر پکا باندھنے کی جگہ۔ المنطقية: من المغز: کمر میں سفیدی والی بکری۔

النطف: مفسر۔ عیب۔ برائی۔ فساد۔

النطفة: صاف پانی۔ تھوڑا یا زیادہ۔ سمندر۔ مرد یا عورت کا نطفہ۔ ج نطف و نطف (..... والنطفة) تھوڑا پانی جو ڈول یا مشک میں باقی رہ جائے۔ النطفة: ہر وہ چیز جو کسی چیز سے نپکے۔

النطفان: دو سمندر (بحر روم و بحر چین یا بحر مشرق و بحر مغرب)

النطفة والنطفة: بالی۔ آبدار موقی ج نطف۔

النطف: پلید۔ ٹھکی آدمی۔

النطف: بارش والی۔ کہا جاتا ہے ”النطفة نطف“ صبح تک بارش والی رات۔

النطف: ریوڑی۔ گدہ۔

النطفی: ریوڑی بیچنے والا۔

نطق (ض) نطقاً ومنطقاً ونطوقاً: بولنا..... الکتاب: واضح بیان کرنا۔

نطفة: گفتگو کرنا۔ کسی کو پکا باندھنا۔ کسی کی کمر میں پکا باندھنا۔ نطق السماء الاكمة وغیرہا: پانی کا ٹیلے کے وسط تک پہنچنا۔

ناطفة: گفتگو کرنا۔

انطفة: گفتگو کرنا۔

تناطقا الرجلان: باہم گفتگو کرنا۔

تنطق وانطق وتمنطق: کمر میں پکا باندھنا..... المرأة: عورت کا کمر میں پکا باندھنا

..... الأرض بالجبال: پہاڑوں سے گھیرا ہوا ہونا انطق بقومہ: طاقتور قوی ہونا۔

الرجل: گفتگو کرنا۔ علم منطقی حاصل کرنا..... قوسد: بغیر سوار ہونے کھینچنا۔

استنطقه: گفتگو کرنا۔ بولنے کو کہنا۔

النطق: مفسر۔ اس کا استعمال نطق خارجی یا ظاہری یعنی گفتگو پر بھی ہوتا ہے اور نطق داخلی یا باطنی یعنی فہم و ادراک کلیات پر بھی۔

النطفة نطق: کا اسم مرہ۔ کہا جاتا ہے ”نطق نطفة واحدة“ وہ ایک ہی بول بالا۔

النطق: بولنے والا۔

السنطاق: کمر بند۔ جینی۔ کہا جاتا ہے ”عقد

تتطع فی الكلام: غلو کرنا۔ تالو سے بولنا۔

..... فی شہواتہ: مبالغہ کرنا۔ فی غمیلہ: ماہر ہونا..... الرجل: چمڑے کے دسترخوان پر کھانا رکھنا۔ خوب سیر ہو کے کھانا۔

النطع والنطع والنطع والنطع: چمڑے کا فرش جو مجرم کو گلے کرنے کے لئے بچھایا جائے ج ناطع ونطوع۔

البطع والنطع: تالو کا اگلا حصہ جس میں ٹھکن جیسا ہوتا ہے۔ ج نطوع اور اسی سے حرف

نطعیہ ت و ط ہیں۔

النطع: گفتگو میں مختلف فصاحت ظاہر کرنے والا۔

النطع: خالص رنگ۔ کہا جاتا ہے بیاض ناطع۔

نطاع القوم: قوم کی زمین۔ قوم کا علاقہ۔ کہا جاتا ہے ”وطننا نطاع بنی فلاں“ ہم نے بنی فلاں کے علاقے کو طے کیا۔

النطاع: کلام میں بہت غلو کرنے والا۔ جلد ساز۔ ہوشیاری سے کھانے کو دسترخوان پر

چھنے والا۔ ج نطاعون۔

النطاعة: لقمہ جس کا نصف حصہ کھایا جائے اور نصف دسترخوان پر چھوڑ دیا جائے۔

نطف (ن ض) نطفاً ونطفاً ونطفاناً ونطفة النساء: تھوڑا تھوڑا پانی بہنا..... القویة: مشک کا ٹپکنا..... الماء: پانی بہنا۔

نطفہ ونطفہ ونطفہ: بدکاری کی تہمت لگانا۔ عیب لگانا۔ نطف المرأة: عورت کے

کان میں بالی پہنانا۔

نطف (س) ونطف نطفاً ونطفة ونطفوة: عیب دار ہونا۔ عیب و بدکاری کا الزام لگایا جاتا۔ نطف الشی: فاسد ہونا۔

خراب ہونا۔ نطف الرجل: بدبشمی والا ہونا۔

تنطف الرجل: عیب دار ہونا..... من کذا: پرہیز کرنا۔ نفرت کرنا۔ تنطف المرأة: عورت کا بالی پہنانا۔

.....

.....

.....

نَظَارٌ: اسم فعل - بروزن نَزَالٍ وَتَرَآكٍ: المَنْظُورَةُ: المَنْظُورُ: كَامَوْثٌ - مصيبت
بمعنى انتظار.

النَّاطِرُ والنَّاطِرُ: انگر یا کھتی کا محافظ۔
النَّاطِرُ: سردار قوم۔

النَّاطِرَةُ: النَّاطِرُ: كَامَوْثٌ - آنکھ ج نواظر
السَّوَاظِرُ: سر کی رگیں جو آنکھ سے ملی ہوئی
ہیں۔

النَّظَارُ: تیز دیکھنے والا۔ کہا جاتا ہے "فَرَسٌ
نَظَارٌ" چالاک تیز خاطر بلند اطراف گھوڑا۔
النَّظَارَةُ: ناظرین۔ موقعہ جنگ کے تماشا کی
النَّظَارَةُ عِنْدَ الْمُؤَلَّدِينَ: ذور بین۔

النَّظُورُ والنَّظُورَةُ والنَّظِيرَةُ والنَّاطُورَةُ:
قوم کا سردار (مذکر و مؤنث واحد جمع)
النَّظُورُ: مہمات سے غفلت نہ برتنے والا۔

النَّظِيرُ: مثل و مانند اور کہا جاتا ہے "فَلَانٌ
نَظِيرُ فُلَانٍ" یعنی فلاں فلاں کے مطابق
ہے۔ ج نظراء مؤنث نظيرة ج نظائر۔
نظائر القوم: قوم کے شرفا و افاضل۔

نَظِيرَةُ الْقَوْمِ او النَجِيسِ وَنُظُورَتُهُمْ:
دید بان۔

النَّظِيرُ: دیکھنے کی جگہ چاہے خوش نام ہو یا
بدنام۔ اور کہا جاتا ہے "فَلَانٌ فِي مَنْظِرِي وَ
مُسْتَمْعِي" فلاں ایسی جگہ میں ہے کہ میں
اس کو دیکھ سکتا ہوں اور اس کی باتیں سن سکتا
ہوں۔ "وَ كُنْتُ عَنْ هَذَا الْمَقَامِ بِمَنْظَرٍ"

یعنی میں اس مقام سے علیحدہ تھا ج منظر
النَّظَائِرُ: بلند زمینیں۔ عِلْمُ الْمَنَاطِرِ: وہ علم
جس سے اشیاء کی مقدار یا اعتبار قریب و بعد
کے پیمانہ سکیں۔

المنظرة: مہم۔ دیکھنے کی جگہ چاہے خوش نما
ہو یا بدنام۔ دیکھنے بھاننے کی جگہ۔ المنظره:
قوم جو کسی چیز کی طرف دیکھنے والی ہو۔

المنظري والمنظراني: خوش نما۔
المنظر: قا۔ مثل۔

المنظر: آئینہ۔ ج منظرير.
المنظور: مفعول وہ شخص جس کی خبر کی امید رکھی
جائے۔ نظر بردگاہوا۔

النَّظْفُورَةُ: المَنْظُورُ: كَامَوْثٌ - مصيبت
امْرَاةٌ مَنظُورَةٌ: عيب و عورت۔

نَظْفٌ (ك) نَظْفَهُ الشَّيْءُ: صاف ستھرا
ہوتا۔ باروتی و حسین ہوتا۔ صفت مذکر
نَظْفِيفٌ صفت مؤنث نَظْفِيفَةٌ ج نَظْفَاءٌ: کہا
جاتا ہے "فَلَانٌ نَظْفِيفٌ السَّرَاوِيلُ" فلاں
پاک دامن ہے و نَظْفِيفٌ الْأَخْلَاقِ: مہذب
۔

نَظْفُ الشَّيْءِ: صاف کرنا۔ پاک کرنا۔
تَنَظَّفَ الشَّيْءُ: صاف ستھرا ہونا۔ الرَّجُلُ:
بتکلف صاف ستھرا بننا۔ برائیوں سے دور
ہونا۔

إِنْتَظَفَ الْفَصِيلُ مَا فِيهِ ضَرَعُ أُمِّهِ: اونٹ
کے بچے کا تھن سے سارا دودھ پی لینا۔
إِسْتَنْظَفَ: صاف ستھرا طلب کرنا..... الْوَالِي
الْجِسْرَاجِ: پورا وصول کر لینا..... فُلَانٌ
الشَّيْءِ: سب لے لینا..... الْفَصِيلُ مَا فِيهِ
ضَرَعُ أُمِّهِ: اونٹ کے بچے کا تھن سے سارا
دودھ پی لینا۔

نَظَمَ (ض) نَظْمًا وَنَظْمًا لِلْوَلُوِّ وَنَحْوَهُ:
مولی پر دنا۔ آراستہ کرنا۔ موزوں کرنا.....
الشَّيْءُ إِلَى الشَّيْءِ: ترتیب دینا۔ کسی چیز کو کسی
چیز سے جوڑنا..... الْأَمْرُ: برپا کرنا۔ قائم
کرنا۔

نَظَمَ الْوَلُوِّ وَالْيَسْعَرُ: بمعنی نظم
(پر دنا۔ موزوں کرنا)
نَظَّمَتْ وَأَنْظَمَتِ السَّمَكَةُ او الذَّجَاجَةُ:
مچھلی یا مرغی کا انڈے والی ہوتا۔

تَنَظَّمَتْ وَأَنْظَمَتْ وَالْوَلُوُّ وَنَحْوَهُ:
مولی کا پر دیا جانا۔ ترتیب وار ہونا۔ تَنَظَّمْ
وَأَنْظَمِ الْأَمْرُ: درست ہونا۔ وَأَنْظَمِ
الصَّيْدُ: شکار کو حیدر پار کر دینا۔ تَنَظَّمَتِ
الصُّخُورُ: پتھر کی چٹانوں کا ایک ساتھ ملا ہوا
ہوتا۔

النَّظْمُ: مہم۔ نڈی دل یا نڈیوں کی ایک
تظار۔ ترتیب دیا ہوا موزوں کلام اور اس
کے مقابل کونتر کہتے ہیں۔ النَّظْمُ: بعض

ستاروں پر اطلاق ہوتا ہے جیسے ثریا۔ نِطَافِ
الْحَوَازِءِ وَالدَّبْرَانِ.

نِظَامٌ كُحُوبِيٌّ نِيكٌ: کوبر نیک البولونی
(۱۳۷۳-۱۵۴۷) کا نظریہ فلکیات جس
کے تحت وہ دعویٰ کرتا ہے کہ زمین اپنے
ارد گرد گھومتی ہے نیز وہ اور دیگر سیارات
سورج کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ اس سے قبل
اس کے برخلاف بطلمیوس نے نظریہ فلکیات
پیش کیا تھا کہ سورج ستارے اور سیارے
زمین کے ارد گرد گھومتے ہیں۔

النِظَامُ: مہم۔ موتیوں کی لڑی کا دھاگا۔ ج
نُظْمٌ وَأَنْظِمَةٌ وَأَنْظِيمٌ. النِظَامُ: طریقہ و
عادت۔ کہا جاتا ہے "مَسَازِلُ عَلِيٍّ نِظَامٌ
وَأَجِيدٌ" وہ ہمیشہ ایک طریقہ پر رہا۔ نِظَامُ
الْأَمْرِ: سرمایہ۔ معاملہ۔ النِظَامُ مِنَ الرَّمْلِ:
ریت پر جما ہوا اور تہہ کا ہوا۔ النِظَامُ مِنَ
الْجِوَارِدِ وَالسَّخْلِ وَنَحْوِهَا: ایک تظار
نڈیوں یا درخت خرما کی۔

النِظَامَانِ وَالْإِنْظَامَانِ وَالْأَنْظُومَانِ مِنَ
السَّمَكَةِ او الضَّبَّةِ: ڈم سے کان تک کی دو
دھاریاں۔ ج أَنْظِيمٌ.
الانْظَامُ: مچھلی یا گوہ کے انڈوں کی تظار۔
لڑی کا دھاگا..... مِنَ الرَّمْلِ: ریت پر جما
ہوا اور تہہ کا ہوا۔

النَّظَامُ: بہت پروئے والا۔
النَّظِيمُ: موزوں شعر وغیرہ۔ پہاڑی راستہ
جس میں چشمے قریب قریب ہوں۔
النَّظُومُ: مفعول۔ شعر اور یہ مشور کے خلاف
ہے۔

النَّظْمُ: ترتیب دینے کی جگہ۔ ج مَنَاطِمُ.
النَّعُ: کمزور مرد۔

النَّعَاعُ: ملائم و نازک گھاس۔ وَاوْحِدُنَاعَةٌ.
نَعَبٌ (ف ض) نَعْبًا وَنَعَابًا وَنَعْبَانًا وَنَعْبَانًا
وَنَعْبَانًا الْغُرَابُ: کوسے کا کاؤں کاؤں کرنا۔
جَدَائِيٌّ كَاخُوفٌ دَلَانًا..... الْمُؤَدِّيُّ: گردن لمبی
کر کے اذان دینا۔
نَعَبَتِ (ف) نَعْبًا الْإِبِلُ: اونٹ کا چلنے میں

گردن لمبی کرنا۔

النَّعْبُ: مص - ریح نَعْبٌ: تیز ہوا۔

نَاقَةٌ نَاعِيَةٌ: حج نَوَاعِبُ وَنُعُوبٌ. حج نَعْبٌ وَنَعَابَةٌ: تیز رفتار اونٹنی۔

النَّعَابُ: اسم مبالغہ - کوئے کا بچہ۔

الْمُنْعَبُ وَالْمُنْعَبُ: تیز رفتار اونٹنی۔ تیز

رفتار گھوڑا جو چلنے میں گردن بلند کرے۔

چلانے والا۔ بے وقوف۔

نَعْنَةٌ (ف) نَعْنًا: تعریف کرنا۔ بیان کرنا

(اور اکثر اس کا استعمال صفات حسنہ کیلئے

ہوتا ہے) نَعْتُ الْحَكِيمَةِ: کلہ کے لئے

صفت لانا۔

نَعْتٌ (س) نَعْنًا: بتکلف عمدہ صفات

دکھانا۔

نَعْتُ (ك) نَعْنَاتُ الرَّجُلِ: خلقت عمدہ

صفات والا ہونا..... الْقَرْمُ: گھوڑے کا تیز

رفتار ہونا۔

أَنْعَتِ الرَّجُلُ: خوب صورت چہرہ والا ہونا۔

عمدہ خصلتوں والا ہونا۔

إِنْتَعَنَ: تعریف کرنا۔ اِنْتَعَبَ الْمَرْأَةُ.....

بالجمال: متصف ہونا۔

تَنَعَّتِ الشَّيْءُ: تعریف کرنا۔ بیان کرنا۔

اِسْتَنْعَتِ الشَّيْءُ: بیان کرنے کو کہنا۔

النَّبْعُ: مص - تعریف حج نُعُوبٌ.

النَّفْعُ وَالنَّفْعَةُ وَالنَّفِيعُ وَالنَّفِيعَةُ

وَالْمُنْتَفِعُ مِنَ الْخَيْلِ: گھوڑ دوڑ میں سبقت

لے جانے والا اسمیل گھوڑا جس کی سب

تعریف کریں اور کہا جاتا ہے "شئی نَعْتٌ"

عمدہ چیز۔ کہا جاتا ہے "هُوَ نَعْفَةٌ" یعنی وہ

بلندی مرتبہ یا حسن جمال میں انتہا پر ہے۔

نَعْتُ (ف) نَعْنًا وَانْتَعْتُ الشَّيْءُ: لینا۔

أَنْعَيْتُ فِي مَالِهِ: فضول خرچی کرنا.....

الرَّجُلُ: سفر کے لئے سامان لینا..... الْقَوْمُ:

کام میں جدوجہد کرنا۔

نَعَّشَ الشَّيْءُ: جمع کرنا..... الْقَرْمُ فِي

جُزَيْبِهِ: تیزی دوڑ کی وجہ سے گھوڑے کا بیٹھ

بیٹھ جانا۔

النَّعْلُ: بے وقوف بڑھا۔ نربجو۔

النَّعْلَةُ: بے وقوفی۔ بڑھے کی چال۔

نَعِجَ (س) وَنَعِجَ (ن) نَعِجًا وَنَعِجًا

السلون: خالص سفید رنگ ہونا۔ نَعِجَتِ

النَّاقَةُ فِي سَيْرِهَا: اونٹنی کا تیز دوڑنا۔ (نَعِجَ

(س) نَعِجًا) الْبَعِيرُ: اونٹ کا سونا ہونا.....

الرَّجُلُ: بھیڑ کا گوشت کھا کر بدبھمی ہونا۔

صفت نَعِجَ.

أَنْعَجَ الْقَوْمُ: موئے اونٹوں والا ہونا۔

النَّعْجَةُ: بھیڑ۔ حج بَعِجًا وَنَعِجَاتٍ.

وَبِعَاجِ الرَّمْلِ: گائے۔

النَّاعِجَةُ مِنَ النِّسَاءِ أَوْ النُّوقِ: سفید عورت

يَا أُونْتِي - نَاقَةٌ نَاعِجَةٌ: تیز رفتار اونٹنی کہ جس

پر بیٹھ کر جنگی بھیڑوں کا شکار کریں۔ أَرْضُ

نَاعِجَةٌ: ہموار زم زمین۔ حج نَوَاعِجِ.

النَّعِجُ: مص - خالص سپیدی۔

نَعَرَ (ف) نَعْرًا وَنَعْرًا الرَّجُلُ:

خراٹے لینا..... الصَّرْفِيُّ بِالدَّمِ: جوش کے

ساتھ خون نکلنا یا نکلنے میں آواز ہونا اور کہا

جاتا ہے "نَعَرَ فُلَانٌ فِي قَفَا الْإِفْلَاسِ" یعنی

مستغنی ہوا۔

نَعَرَ (ف) نَعْرًا فِي الْبِلَادِ: جانا..... الْقَوْمُ:

جوش و خروش ظاہر کرنا اور اکٹھا ہونا..... اِلَى

فُلَانٍ: آنا۔ کہا جاتا ہے "مِنْ أَيْنَ نَعَرْتُ

إِلَيْنَا" تم کہاں سے ہمارے پاس آئے۔ نَعَرَ

فِي الْأَمْرِ: اٹھنا اور کوشش کرنا..... الرَّجُلُ:

مخالفت کرنا اور انکار کرنا۔

نَعَرَ (س) نَعْرًا الْجَمْرًا أَوْ الْقَرْمُ: ناک

میں مہمی داخل ہونے کی وجہ سے مضطرب

ہونا۔ صفت نَعَرَ.

نَعَرَ الشَّهْمُ: سیدھائی معلوم کرنے کے لئے

ناخن پر گھمانا۔

أَنْعَرَ الْأَرَاكُ: درخت پیلو کا پھل دار ہونا۔

النَّعْرَةُ: نعر۔ کا اسم مرہ۔ خراٹا۔ حج

نَعْرَاتٍ نَعْرَةُ النُّجْمِ: ہوا کا جھونکا۔ اور ثریا

کے طلوع کے وقت سخت گرمی۔

النَّعْرَةُ وَالنُّعْرَةُ: تکبیر۔ غرور۔ مہتمم بالشان

کام۔

النَّعْرَةُ وَالنُّعْرَةُ: ناک کا اندرونی بالائی

حصہ۔ النُّعْرَةُ: ہوا جو ناک میں داخل ہو کر

حرکت پیدا کرے۔ پیلو کا پھل (ایک قسم کی

بڑی لمبی لمبی مٹھی جو گھوڑوں اور گدھوں کی ناک

میں داخل ہو کر تکلیف پہنچاتی ہے۔ حج

نَعْرٌ وَنَعْرَاتٌ.

النَّاعِرُ: فا۔ کہا جاتا ہے كَلَّمْنَا نَعْرَبِهِمْ نَاعِرًا

إِتِّبَهُوْا" جب بھی کوئی جینے والا چیتا ہے اس

کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ

ہڑ بونگ کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔

النَّعْسُ: وہ شخص جو ایک جگہ پر قائم نہ رہے

مَوْنَتُ نَعْرَةٍ.

النَّعِيرُ: مص - لڑائی وغیرہ کی چیخ و پکار۔ کہا

جاتا ہے "فُلَانٌ نَعِيرٌ الْهَيْمِ" فلاں بلند ہمت

ہے۔

النَّعَارُ: نافرمان۔ نَعْرًا لَيْزٌ - جینے والا شور

مچانے والا۔ مَوْنَتُ نَعَارَةٍ. اِمْرَأَةٌ نَعَارَةٌ:

شور مچانے والی۔ بد زبان عورت۔ النَّعَارُ:

ایک قسم کا پرندہ۔

النَّعَارُ وَالنُّعُورُ وَالنَّاعُورُ: رگ یا زخم جس

سے خون جوش سے نکلے۔ النَّاعُورُ: بچل کا

پہلو۔ النَّعُورُ مِنَ الرِّيحِ: گرمی میں ناگہاں

ٹھنڈی ہوا یا سردی میں گرم ہوا۔ نَيْتَةُ نَعُورٌ:

ذور کی نیت۔

النَّعَارَةُ عِنْدَ الْمُؤَلِّدِينَ: دستے والا مٹی کا

آب خورہ۔ عوام عین کی تخفیف سے بولتے

ہیں۔

النَّاعُورُ وَالنَّاعُورَةُ: رہٹ۔ حج نَوَاعِيرُ.

نَعَسَ (ف) نَعْسًا الرَّجُلُ: اوجھنا صفت

مَرَّكَرَاعِسُ حج نَعْسٌ: صفت مَوْنَتُ نَاعِسَةٌ

حج نَاعِسَاتٌ وَنَوَاعِسُ. نَعَسَ جَسْمُهُ أَوْ

رَأْيُهُ: جسم یا رائے کا نرم و کمزور ہونا۔ نَعَسَتْ

السُّوقُ: بازار کا ماند پڑنا۔

أَنْعَسَهُ: سلاٹا..... فُلَانٌ سَسَتْ يَدَيْهِ وَالْأُ

ہوتا۔

تَسَاعَسَ: بتکلف سونا۔ اپنے آپ کو سوتا ہوا

ظاہر کرنا..... النَّسْفُ: بجلی کا ست پڑنا۔
تَنَاسَبَ السُّوفِي: بازار کا ماند پڑنا۔

النَّعْصَاسُ: حواس کی کستی۔ اونگھ۔ ابتدائی نیند۔

النَّعْسَانُ: اونگھنے والا۔ مَوْنَتْ نَعْسِي (اس کا استعمال عموماً اشعار میں مستحسن ہے)
إِسْرَاسَةٌ نَعْسَانَةٌ وَنَعْسُوسٌ: اونگھنے والی عورت۔ نَاقَةٌ نَعْسُوسٌ: دو دو حار اونگھی۔

نَعْسُهُ (ف) نَعْسُهُ اللّٰهُ: بلند کرنا۔ اٹھانا۔ بلاکت سے بچانا۔ فقیری کے بعد دولت والا بنانا..... الرَّبِيعُ النَّاسُ: خوش حال کرنا..... الْمَيْتُ: بھلائی سے یاد کرنا..... طَرْفُهُ: نگاہ اٹھا کر دیکھنا..... الشَّجَرَةُ: جھکے ہوئے درخت کو اٹھانا۔

نُعِشٌ: تابلوت پراٹھایا جانا۔ صفت مَنُعُوشٌ..... فَلَانٌ: پھسلنے کے بعد اٹھایا جانا۔

نَعْسُهُ وَأَنْعَسَهُ اللّٰهُ: بلند کرنا اور اٹھانا۔ نَعِشَ فَلَانٌ فَلَانًا: نَعْسَكَ اللّٰهُ مِنْ عَتْرَتِكَ: کہنا۔

إِنْتَعَشَ: کستی کے بعد چست ہونا۔ سر اٹھانا..... مِنْ سَقَطِيهِ: کرنے کے بعد اٹھانا۔

إِسْتَعَشَ: بستی کے بعد چست ہونا۔ النَّعِشُ: مصل۔ بقا۔ محافد کے مانند چار پائی جس پر بادشاہ کو بیمار ہونے کے بعد اٹھاتے تھے۔ تابلوت۔ مُرَدُّہ کا تخت۔ بِنَاثُ نَعِشٍ الْكُبْرَى: سات سات جو قطب شمالی کی جہت میں ہیں اور انہیں کے قریب سات اور ستارے ہیں جن کو بِنَاثُ نَعِشِ الصُّغْوَى: کہتے ہیں۔

نَعِصٌ (ف) نَعِصُ الشَّيْ: حرکت دینا..... الْجُرَّادُ الْأَرْضُ: چٹ کر جانا۔

نَعِصٌ (س) نَعِصًا: جھلکانا۔ اِنْتَعِصَ: بلنا..... الرَّجُلُ: گرنے کے بعد اٹھنا۔ غُضِبْنَا كَمَا هُوَا۔

النَّاعِصَةُ: مددگار۔ اعوان و انصار۔ اَنْعَطَ الْأَكْبَلُ: آدھا لقمہ کھانا آدھا ڈال

دینا۔

النَّعْطُ: کھانے اور داد و دہش میں بد تمیز لوگ۔ واحد نَاعِطٌ.

نَاعِطَةٌ مُنَاعِفَةٌ: باہم دور استوں میں مقابلہ کرنا کہ ہر ایک آگے بڑھ جانا چاہتا ہو۔ الطَّرِيفُ: راستہ میں مقابلہ کرنا۔

أَنْعَفٌ: بلند جگہ پر بیٹھنا۔ اِنْتَعَفٌ: بلند جگہ پر چڑھنا..... لِفَلَانٍ: درپے ہونا..... الشَّيْ: غیر کے لئے چھوڑ دینا۔ الرَّايِبُ: ظاہر ہونا۔

النَّعْفُ: پہاڑ سے نیچے اور وادی سے بلند ہموار جگہ..... مِنَ الرَّمْلَةِ: ریت کا اگلا دپٹلا حصہ۔ نَعْفًا:

النَّعْفَةُ: پشت پاؤں پر جوتے کا تسمہ۔ النَّعْفَةُ: کیسو۔ شملہ۔ گوشت میں فاسد گرہ۔ کچا وہ کے تسمے جو ادھر ادھر حرکت کریں۔

أَذُنٌ نَاعِفَةٌ وَنَعُوفٌ وَمُنْتَعِفَةٌ: ٹکٹا ہوا کان۔

الْمَنَاعِفُ مِنَ الْجِبَالِ: پہاڑوں کی چوٹیاں۔

الْمُنْتَعِفُ: نرم اور سخت زمین کے درمیان کی حد۔

نَعَقٌ (ف ض) نَعَقًا وَنَعِيقًا وَنَعَاقًا وَنَعَقَانًا الْفَرَابُ: کوئے کا کاؤں کاؤں کرنا۔

السُّوْدَانُ: مؤذن کا بلند آواز سے اذان دینا۔ الرَّاعِي بِغَنَمِهِ: چرواہے کا بکریوں کو آواز دینا اور ڈانٹنا۔

النَّعَاقُ: بہت کانیں کانیں کرنے والا۔ النَّاعِقَانُ: جو زاء کے دو ستارے۔

نَعَلٌ (ف) نَعَلًا الْقَوْمُ: جوتے دینا۔ (نَعَلٌ وَنَعْلٌ وَنَعْلٌ) الدَّيَّانَةُ: نعل لگانا۔

نَعْلٌ (س) نَعْلًا: جوتہ پہننا۔ تَنَعَّلَ وَانْتَعَلَ: جوتہ پہننا..... السُّوْبُ: روندنا۔ اور کہا جاتا ہے "اِنْتَعَلَ الْأَرْضُ" اس نے پیدل سفر کیا۔

النَّعْلُ: مصل۔ جوتہ۔ ہر وہ چیز جس سے قدم کو بچایا جائے (مَوْنَتْ) تَصْغِيرُ تَغْيِيلَةً: نَعْلٌ

الدَّيَّانَةُ: کھوڑے کا نعل ج۔ نَعَالٌ وَانْتَعَلَ. النُّعْلُ: میان کے نچلے حصہ میں چاندی یا لوہے کا بنا ہوا۔ سخت زمین جس میں کچھ نہ آگے۔ ج۔ نَعَالٌ کہا جاتا ہے "اِنْخَضَرَتْ نَعَالُ الْقَوْمِ" یعنی قوم کی زمین سرسبز ہوگئی۔

النَّعْلَةُ: ہر وہ جس سے قدم کو زمین سے بچایا جائے اور یہ نَعْلٌ سے خاص ہے۔

النَّاعِلُ: فا۔ بہت جوتے والا۔ گورخر۔ زَجْلٌ نَاعِلٌ: جوتا پہننا ہوا مرد۔ خَافِرٌ نَاعِلٌ: سخت کمر۔

النَّعَالُ: نعل بند۔

السُّنْعَلُ وَالمُنْعَلَةُ: سخت زمین۔ کہا جاتا ہے "مَكَانٌ مَنْعَلٌ وَ أَرْضٌ مَّنْعَلَةٌ".

السُّنْعَلُ: جوتے والا۔ فَرَسٌ مَنْعَلٌ: مضبوط نعل لگا ہوا گھوڑا۔ کہا جاتا ہے "ذَمَّاهُ بِالسُّنْعَالِ" اس نے اس پر مصیبتیں ڈالیں۔

نَعَمٌ (ف ن) وَنِعْمٌ (س) نَعْمَةٌ وَنَعْمًا الرَّجُلُ: خوش حال ہونا..... عَيْشُهُ: آسودہ و کشادہ ہونا اور کہا جاتا ہے "هَذَا مَسْرُورٌ يَنْعَمُهُمْ"۔ یہ ایسی منزل ہے جو ان کے موافق ہے "وَنِعْمَتْ بِهِذَانَا عَيْنًا" یعنی میں اس سے خوش ہوا "وَنِعْمَكَ اللّٰهُ عَيْنًا وَنِعْمَ اللّٰهُ بَكَ عَيْنًا" یعنی تمہاری آنکھ تھنڈی کرے اور تم سے تمہاری محبوب کی آنکھ تھنڈی کرے۔

نَعِمٌ (س) نَعْمًا الْفَوْذُ: کلڑی کا سرسبز تر و تازہ ہونا۔

نَعِمٌ (ك) نَعْمُومَةٌ: نرم و نازک ہونا۔ مَلَامٌ ہونا صفت نَاعِمٌ.

نَعِمٌ افعال مدح میں سے ہے اور غیر منصرف ہے۔ تم کہتے ہو "نَعِمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ وَنَعِمَ زَيْلًا زَيْدًا" اور شئی اور جمع کا استعمال نادر ہے۔ کہا جاتا ہے نَعِمْنَا نَعْمًا وَنَعْمُنَا وَنَعِمْنُ اور بھی اس کے آخر میں مالا حق ہوتا اس وقت صلہ سے مستثنی ہوتا ہے جب کہ

کوئی قرینہ ہو۔ مثلاً تم کہو گے "ذَقَّقْتُهُ وَقَا
يَعْمًا" (کسر میں سے اور کبھی مفتوح بھی ہوتا
ہے) معنی میں نَعْمٌ مَا ذَقَّقْتُهُ کے اور عرب
کا قول "إِنْ فَعَلْتَ فِيهَا وَيَعْمَتْ" تاہم ساکنہ
سے جس کی تقدیر نَعْمَتْ الْفِعْلَةُ ہے۔

نَعْمَ الشَّيْءُ: نرم و نازک بنانا..... الرَّجُلُ:
آسودہ حال کر دینا۔ کسی سے نعم کہنا.....
الْقَوْمُ: لوگوں کے پاس پاؤں آنا۔

أَنْعَمَ. الشَّيْءُ: نرم و نازک بنانا..... فَلَانَا:
آسودہ حال بنانا۔ کہا جاتا ہے "أَنْعَمَ اللَّهُ
صَبَاحًا" یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری صبح اچھی

کرے اور یہ امر کے موقع پر کہا جاتا ہے
"أَنْعَمَ صَبَاحًا" اور کثرت استعمال کی وجہ
سے ہمزہ اور نون حذف کر دیا جاتا ہے تو کہا

جاتا ہے "عِمَّ صَبَاحًا وَعِمَّ مَسَاءً أَنْعَمَ اللَّهُ
الْبِعْضَةَ عَلَيْهِ وَأَنْعَمَهُ بِالْبِعْضَةِ" نعمت
پہنچانا۔ انعم اللہ بک عینا: تمہاری

آنکھیں ٹھنڈی کرنا یا تمہاری وجہ سے
دوسرے کی آنکھیں ٹھنڈی کرنا أَنْعَمَ
الرَّجُلُ: زیادہ کرنا۔ نعمت کو پہنچانا الْقَوْمُ:
لوگوں کے پاس ننگے پاؤں آنا۔ أَنْعَمَ

صَدِيقَهُ: ننگے پاؤں ہو کر رخصت کرنا۔
أَنْعَمَ فِي الْأَمْرِ: مبالغہ کرنا۔ اچھی طرح
سے کرنا..... أَنْعَمَ النَّظْرُ فِي الْمَسْأَلَةِ: غور

کرنا۔ أَنْعَمَ لَهُ كَسَى سَعْمًا: کہا اور کہا جاتا
ہے "هَذَا مَنْزِلٌ يَنْعَمُ" یہ ایسی منزل ہے جو
بہت برکت والی اور موافق ہے۔

نَاعَمَ مُنَاعِمَةُ الرَّجُلِ: آسودہ حال ہونا۔
الرَّجُلُ: آسودہ حال بنانا..... الْحَجَلُ

وَعَيْرُهُ: رسی کو مضبوط کرنا۔
تَنْعَمَ الرَّجُلُ: ناز و نعمت کی زندگی بسر کرنا۔
ننگے پاؤں چلنا..... قَدَمَيْهِ: مشغول کرنا.....

فَلَانَا بِالْمَكَانِ: ڈھونڈنا..... الدَّائِبَةُ: خوب
اچھی طرح ہانکنا اور کہا جاتا ہے "أَتَيْتُ
أَرْضَهُمْ فَتَنْعَمْتَنِي" یعنی میں ان کی زمین

میں پہنچا اور وہ میرے لئے موافق ہوئی۔
نَاعَمَ: خوش عیش ہونا۔

نَعْمٌ: کلمہ ایجاب ہے اور اس میں چار لغت
اور ہیں۔

نَعْمٌ وَنَعْمٌ وَنَعْمٌ وَنَعْمٌ اور یہ چار معانی میں
آتا ہے۔

(۱) خبر کے بعد واقع ہو تو حرف تصدیق ہے
جیسے قَامَ زَيْدٌ کے جواب میں نَعْمٌ ہو تو اس
کے معنی قَامَ کے ہوں گے۔

(۲) امر اور نہی کے بعد واقع ہو تو حرف
وَعْدٍ ہوگا جیسے "أَضْرِبْ زَيْدًا" کا جواب
میں "نَعْمَ أَعِدْكَ بِضَرْبِهِ" کے معنی میں ہو
گا۔

(۳) اور استفہام کے بعد واقع ہو تو حرف
اعلام ہوگا جیسے قَامَ زَيْدٌ کے جواب میں نَعْمٌ
أَعْلَمُكَ بِقِيَامِهِ کے معنی میں ہوگا۔

(۴) اور جب صدر کلام میں واقع ہو تو
فائدہ تاکید کا ہوتا ہے جیسے نَعْمَ إِنَّ رَبِّي
قَادِرٌ۔

النَّعْمُ: خوش حالی۔ تن آسانی۔ جِ أَنْعَمَ تَم
کہتے ہو "هَذَا يَوْمٌ نَعْمٌ" یعنی یہ عیش و طرب کا
دن ہے۔

النَّعْمُ: اونٹ۔ چوپایہ پر بھی اطلاق ہوتا ہے
جِ أَنْعَامٍ۔ جِ أَنْعِيمٍ۔

النَّعْمَةُ: اسم مرۃ۔ آسودگی۔ نَعْمَةُ الْعَيْشِ:
زندگی کی آسودگی۔

النَّعْمَةُ: احسان۔ رزق وغیرہ کا انعام جو
تمہارے اوپر ہو۔ خوشی۔ خوشگوار حالت۔
جِ نَعْمٌ وَأَنْعَمٌ وَنِعْمَاتٌ وَنِعْمَاتٌ وَنِعْمَاتٌ
کہا جاتا ہے فَلَانٌ وَأَسْبَغَ النِّعْمَةَ: فلاں

بہت مالدار ہے۔
النَّعْمَاءُ جِ أَنْعَمٌ وَنَعْمِيٌّ: بابرکت ہاتھ۔
وَالنَّعْمِيُّ: آرام۔ خوش عیشی مال۔ کہا جاتا

ہے "سَأَفْعَلُهُ نَعْمَ عَيْنٍ وَنَعْمَ عَيْنٍ وَنَعْمَةً
عَيْنٍ وَنَعْمَةً عَيْنٍ وَنَعْمِيَّ عَيْنٍ وَنَعْمِيَّ عَيْنٍ
وَنَعْمًا عَيْنٍ وَنَعْمًا عَيْنٍ وَنَعْمًا عَيْنٍ وَنَعْمًا عَيْنٍ"
یعنی عنقریب تمہارے اکرام کے لئے

میں ایسا کروں گا اور کہا جاتا ہے "نُعَامًا كَ
أَنْ تَفْعَلَ كَذَا" تمہارے لئے آخری امر یہ

ہے کہ تم ایسا کرو۔

النَّعْمَةُ: خوشی۔ نَعْمَةُ الْعَيْنِ آنکھ کی ٹھنڈک۔
النَّعَامَةُ: شتر مرغ (نذکر و مَوْت) جِ نَعَامٌ
وَنَعَامَاتٌ وَنَعَامٌ اور نذکر کو ظلم اور شتر

مرغ کے گلہ کو نَسَاتُ الْهَيْسِقِ کہتے ہیں۔ شتر
مرغ کے پر خوبصورت ہوتے ہیں جس کو
زینت کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

بھاگنے اور عبادت میں اس کی مثال دی جاتی
ہے۔ النَّعَامَةُ: نفس تار کی۔ خوشی۔
اکرام۔ جہالت۔ واضح راستہ۔ کنوئیں میں

اٹھا ہوا پتھر۔ راستہ کا نشان۔ پہاڑ پر سائبان
کی مانند بنی ہوئی عمارت۔ دماغ کھلی۔

لوگوں کی جماعت۔ اِسْنُ النَّعَامَةِ: پندلی کی
بڑی۔ قدم یا ٹالو اور کہا جاتا ہے "نَفْسَرْتُ
نَعَامَتَهُ" یعنی مر گیا یا کوچ کر گیا۔ "وَجَدْنَا

كَمَا النَّعَامِيَّةُ" یعنی محروم ہونا "وَوَكَّبَ جَنَاحِي
النَّعَامِيَّةُ" یعنی اس نے اپنے معاملہ میں کوشش
کی "وَسَالَتْ نَعَامَتَهُ" یعنی مر گیا "وَسَالَتْ

نَعَامَةُ الْقَوْمِ" یعنی متفرق ہو گئے اور انہوں
نے اپنے منازل کو خالی کر دیا "وَإِنَّهُ لَخَفِيفٌ
النَّعَامَةُ" یعنی ضعیف العقل ہے "وَأَصَمُّ مِنْ

نَعَامَتِهِ" وہ شتر مرغ سے زیادہ بہرا ہے اس
لئے کہ شتر مرغ جب بھاگتا ہے تو کسی جانب
نہیں مڑتا۔

النَّعَامُ: اسم جمع ہے مفرد اس کا النَّعَامَةُ ہے۔
بِأَيَانَ النَّعَامِ الصَّادِرِ: چار ستاروں کے
نام النَّعَامُ الْوَارِدِ: دوسرے چار ستاروں

کے نام اور یہ سب منازل قمر میں سے ہیں۔
النَّعَامِيَّةُ: منازل قمر میں سے ایک منزل کا
نام۔

جس کی صورت شتر مرغ جیسی ہے اور یہ
آٹھ ستارے ہیں۔
النَّعْوَمَةُ: مہص۔ نرمی و نازکی۔ ملائمت۔

النَّعْمَانُ: حیرہ کے ہر بادشاہ کا لقب خون
شقایق النَّعْمَانِ: گل لالہ۔ واحد شَقِيقَةُ
النَّعْمَانِ.
الْإِنْعَامُ: مہص۔ انعام۔ جِ انعامات۔

نَغْرَت (ف ض) وَنَغْرَت (س) نَغْيَرًا
وَنَغْرَانَا الْقِدْرُ: ہانڈی کا بلانا۔

نَغْرٌ وَنَغْرٌ نَغْرًا وَنَغْرَانَا الرَّجُلُ عَلَيَّ فَلَانُ:
غضبناک ہونا۔ کہا جاتا ہے "نَغْرٌ عَلَيْهِ
جَوْفُهُ" اس کا جوف اس پر بھڑک اٹھا۔

صفت مذکر نَغْرٌ: صفت مؤنث نَغْرَةٌ.....
النَّاقَةُ: اونٹنی کو آواز دینا۔ بلانا۔

نَغْرٌ (س) نَغْرًا مِّنَ الْمَاءِ: بہت پانی پینا
..... الرَّجُلُ: کینہ رکھنا۔

نَغْرٌ الصَّبِيُّ: بچے کو گدگدانا۔ بِالنَّاقَةِ: اونٹنی کو
آواز دینا۔ بلانا۔

تَنَغَّرَ الرَّجُلُ: غضب کی وجہ سے جوف کا
بھڑک اٹھنا..... غَسِي فَلَانٌ: دگرگوں ہونا یا
غضبناک ہونا۔

أَنْغَرَتِ الْبَيْضَةُ: انڈے کا گدگدانا۔

تَنَاعَرَ الرَّجُلُ: تاواقت بننا۔

النَّعْرُ: مہس۔ کھاری پانی کا چشمہ۔

النَّعْرُ: بلبل۔ چڑیا کے بچے۔ ج نَغْرَانُ:

النَّعَارُ: بہت غضبناک۔ جُرُوحٌ نَغَارٌ: بہت
خون بہانے والا زخم۔

الْمُنْغَرُ: بکری جس کے دودھ کے ساتھ خون
آئے۔

الْمُنْغَارُ: بکری جس کے دودھ کے ساتھ
خون آنے کی عادت ہو۔

نَغْرٌ (ف) نَغْرًا الصَّبِيُّ: بچے کو گدگدانا۔

بَيْنَ الْقَوْمِ: ایک دوسرے پر براہیجت کرنا۔
النَّغَارُ: قندگیز۔ تباہی لانے والا۔

نَغَشٌ (ف) نَغَشًا وَنَغَشَانًا: بلنا اور بے
قرار ہونا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ يَنْغَشُ إِلَيَّ
فَلَانٌ" وہ فلاں کی طرف مائل ہے۔ "وَمُقْبِي
فَلَانٌ فَتَنْغَشُ" یعنی طاری ہونے کے بعد
حرکت کی۔

تَنْغَشُ وَتَنْغَشُ الشَّيْءُ: بلنا اور بے قرار
ہونا۔ کہا جاتا ہے "اتَنْغَشُ وَتَنْغَشُ الْمَكَانُ
بِأَهْلِهِ وَالرَّأْسُ بِالْقَمَلِ" جگہ اپنے لوگوں
اور سر جوں سے بھر گیا۔

النَّفْسَةُ: نغش۔ کا اسم مرآة۔

يَنْعَى عَلَيَّ نَفْسِي بِالْفَوْاحِشِ "یعنی فلاں
اپنے آپ کے متعلق ارتکاب فواحش کی
شہرت دیتا ہے۔

أَنْعَى عَلَيْهِ شَيْئًا قَبِيحًا: کسی کے متعلق بری
بات طعنہ کے طور پر کہنا۔ أُنْعِيهِ الشَّيْءُ: خیر
دینا۔

تَسَاعَى الْقَوْمُ: قتل اور طلب قصاص پر
براہیجت کرنے کے لئے مقتولین کی خیر موت
کو بیان کرنا۔

إِسْتَسْعَى الْقَوْمُ: قتل اور طلب قصاص پر
براہیجت کرنے کے لئے مقتولین کی خیر موت
کو بیان کرنا۔ مَتَرَقٌ وَمَتَشَرٌّ هُوَ: اِسْتَسْعَى
ذِكْرُ فَلَانٍ: پھیلنا..... حُبُّ الْخَمِيرِ بِهِ:
مدت تک رہنا..... الرَّاعِي الْغَنَمِ: چرواہے

کا آگے ہو کر اپنے پیچھے بکریوں کو بلانا۔
النَّعِيَةُ: نعی۔ کا اسم مرآة۔ ج نَعِيَاتُ:
النَّعَى: فاجہر مرگ لانے والا۔ طعن تفتیح
کرنے والا۔ ج نَاعُونَ وَنَاعَاهُ وَنَعِيَانُ:
النَّهْيُ: مہس۔ خیر مرگ لانے والا۔ جس کی
وقات کی خیر دی جائے۔

نَعَاءٌ مَبْنِي عَلَى الْكُسْرِ: اسم فعل بمعنى اِنع کہا جاتا ہے
نَعَاءٌ فَلَانًا: یعنی فلاں کی موت کا پیغام
پہنچاؤ۔

النَّعَى وَالْمَنْعَاةُ: خیر مرگ۔ ج مَنَاعُ:
نَعَبٌ (ف ن) نَعْبًا الرَّيْقُ: تھوک لگنا۔
نَعَبٌ (ن) نَعْبًا الرَّجُلُ فِي الشَّرْبِ:
گھونٹ گھونٹ پینا۔

نَعَبٌ (ف) نَعْبًا الطَّائِرُ: پرندہ کا پانی پینا۔
النَّعْبَةُ وَالنَّعْبَةُ: گھونٹ ج نَعَبٌ. النَّعْبَةُ: برا
کام۔

النَّعْبَانُ: بے وقوف۔
السَّنْبِقَةُ وَالنَّعْبُوقَةُ: جانور کے پیٹ کی
آواز۔

النَّعْبُوقُ: ایک قسم کا پرندہ۔
النَّعْبُولُ: ایک قسم کا پرندہ۔ ایک نباتات۔
نَعَتْ (ف) نَعْتًا الشَّعْرُ: بال کھینچنا۔
النَّعْتُ: داغی تخت مصیبت۔

النَّعَامُ: انعام۔ عطیہ۔
النَّاعِمُ: فاق..... مِّنَ النَّعَامِ: ملائم کپڑا..... مِّنَ
النَّعِيشِ: آسودہ زندگی..... مِّنَ النَّبَاتِ:
سیدھا ہموار۔

النَّاعِمَةُ: النَّعَامُ: کامؤنث۔ آسودہ زندگی
والی۔ باغ۔
النَّعِيمُ: آسودہ حالی۔ آرام۔ مال۔ کہا جاتا
ہے "رَجُلٌ نَعِيمٌ الْبَالُ" یعنی سکون قلب والا
مرد۔ نَعِيمٌ اللَّهُ: اللہ کا فضل۔

الْمِنْعَمُ: جھاڑو۔
الْمِنْعَامُ: بڑا فیاض۔
كَلَامٌ مِّنْعَمٌ: نرم کلام۔
الْمُنَاعِمُ وَالْمُنَاعِمُ مِّنَ النَّبَاتِ: سیدھی
ہموار نباتات۔

الْمُنْعَمُ وَالْمُنَاعِمُ وَالْمُنْتَعِمُ وَالْمُنْتَعِمُ:
خوش حال۔ مالدار۔
تَنْعَعُ لِسَانُ فَلَانٍ: زبان میں ہکلا پن ہونا۔
تَنْتَعَعُ الشَّيْءُ: مضطرب ہونا۔ جھکتا..... غَنَةٌ:
دور ہونا۔

النَّعْنَعُ وَالنَّعْنَاعُ: پود پیند۔ واحد نَعْنَعَةٌ
وَنَعْنَاعَةٌ.
النَّعْنَعَةُ: پونا۔
نَعَا يَنْعُو نَعَاءً السُّورُ: بلی کا میاؤں میاؤں
کرنا۔

النَّعُو: ناک کے نیچے کا دائرہ۔ اونٹ کے
اوپر والے ہونٹ کی پھین۔ کھر کے پچھلے
حصے کی کشادگی۔ تازہ کھجور۔

نَعَى يَنْعَى نَعْيًا وَنَعْيًا وَنَعْيَانًا لَنَا وَإِنَّا
فَلَانًا: موت کی اطلاع دینا۔ کہا جاتا ہے
"نَعَاءُ بَمَوْتِ فَلَانٍ" اس نے اس کو فلاں کی
موت کی اطلاع دی..... نَعَى الْقَوْمُ: میت
کے دفن کے لئے بلانا۔ نَعِيَهُ الشَّيْءُ: خیر دینا
..... عَلَى الْقَوْمِ شَهْرًا تَهْمُ: عیب گیری کرنا
کہا جاتا ہے "هُوَ يَنْعَى عَلَيَّ فَلَانٌ ذُنُوبَهُ"
یعنی وہ فلاں کے گناہوں کو ظاہر کرتا ہے اور
شہرت دیتا ہے۔ "وَفَلَانٌ يَنْعَى فَلَانًا" فلاں
فلاں سے قصاص طلب کرتا ہے۔ "وَفَلَانٌ

<p>آہستہ گفتگو۔ النِّعَامُ: بہت سرنکالنے والا۔ السَّنَمَةُ والنَّمَمَةُ: نغمہ کا واحد۔ پڑھنے میں اچھی آواز۔ ج نغمات۔ النَّمَمَةُ: گھونٹ۔ ج نغم۔ رَجُلٌ نَعُومٌ: اچھی آواز والا مرد۔ نَعَا يَنْعُو نَعْوًا وَنَعَى يَنْعِي نَعْيًا وَنَعَى إِلَيْهِ: قابل سمجھ بات کرنا۔ کہا جاتا ہے "سَكَتَ فَلَانَ فَمَا نَعَى بِحَرْفٍ" فلاں خاموش رہا ایک حرف نہیں بولا۔ نَاعَى الصَّبِيَّ: بچے سے دل پسند بات کرنا۔ الصَّرَاةُ: عیش بازی کرنا۔ الرُّجُلُ: مقابلہ کرنا۔ غالب ہونے کی کوشش کرنا۔ قریب ہونا۔ الصَّوْجُ السَّحَابُ: موج کا بادل کی طرف اٹھنا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا لَجِبَلٌ يُنَاعِي السَّمَاءَ" یہ پہاڑ اونچائی کی وجہ سے آسمان کے قریب ہے۔ تَنَاعَى الْقَوْمُ: باہم مقابلہ کرنا۔ ایک دوسرے پر غلبہ کی کوشش کرنا۔ النَّاعِيَةُ: کلمہ۔ النَّعُومَةُ والنَّمِيَةُ: سریلی آواز۔ اچھی گفتگو۔ النَّعِيَةُ: خبر جو بھی تحقیق نہ کی گئی ہو۔ کہا جاتا ہے "سَمِعْتُ نَعِيَةً مِنْ كَذَا" میں نے فلاں چیز کی افواہ سنی ہے۔ نَعْفٌ (ن) نَعْفًا الْأَرْضُ: بونا۔ نَعْفٌ (س) نَعْفًا السَّوْبِقُ: ستو پھانکنا۔ النَّعْفِيُّ: جس پر ستو چھانا جائے۔ ج نغافئ۔ النَّعْفِيَّةُ والنَّمِيَّةُ والنَّمِيَّةُ: سمجھور کے پتوں سے بنا ہوا گراں دسترخوان۔ النَّعْفِيَّةُ: اونٹ کے پالان کا ٹنگ۔ النَّعْفَا: نباتات کے متفرق قطعات۔ چھوٹے باغ یا اکٹھے بعض درخت جو بڑی بڑی گھاس سے بلند ہو گئے ہوں۔ واحد نَعْفَاةٌ۔ نَعْفَتٌ (ض) نَعْفَتًا وَنَعْفَانًا وَنَعْفَانًا وَنَعْفَتٌ الْقَدْرُ: ہانڈی کا بہت زور سے ابلنا۔ صفت نفوت۔ نفوت و نافت الرُّجُلُ: غصبتاک ہونا۔ غصہ سے بھولنا۔ وَنَعْفَتُ الدَّقِيقُ نَعْفَانًا:</p>	<p>النَّفُوضُ: بڑے کوہان والی اونٹنی۔ نَعْفٌ (س) نَعْفًا الْبَعِيرُ: اونٹ کی ٹاک میں کپڑا ہونا۔ النَّعْفُ: بمص۔ اونٹ اور بکری کے ٹاک کے کپڑے۔ واحد نَعْفَةٌ. النَّعْفُ: خشک ریٹ جو ٹاک سے نکلے۔ نَعْفٌ (ف ش) نَعْفًا وَنَعْفًا الْغُرَابُ: کوڑے کا ڈوں کا ڈوں کرنا۔ النَّفَاقُ: بہت کا ڈوں کا ڈوں کرنے والا۔ نَعْفٌ (س) نَعْفًا الْجِلْدُ: کھال کا دباغت میں خراب ہونا۔ النُّعُوحُ: فاسد ہونا۔ زخم میں کچھ خرابی باقی رہ جانا۔ نَعْلَتْ يَنْتَهُ: نیت بری ہونا۔ نَعْلٌ قَلْبُهُ عَلِيُّ: کینہ رکھنا۔ بَيْنَهُمْ: فساد و التنا۔ چغل خوری کرنا۔ وَجْهُ الْأَرْضِ: سوکھا پڑنے کی وجہ سے سطح زمین کا خشک ہونا۔ نَعْلٌ (ك) نَعْلَةٌ الْمَوْلُودُ: نسبت بگڑنا۔ النَّعْلَةُ: اسم مصدر ہے۔ نَعْلٌ الْجِلْدُ: دباغت میں خراب کرنا۔ اسم النَّعْلَةُ۔ النَّعْلُ: گھوڑے اور گدھی سے پیدا شدہ جانور۔ النَّعْلُ: بمص۔ لوگوں کے درمیان فساد انگیزی۔ چغل خوری۔ النَّعْلَةُ: چغل خوری۔ النَّعْلُ وَالنَّعْلُ مَوْنَتُ نَعْلَةٍ وَنَعْلَةٍ وَالنَّعْلُ: بگڑا ہوا۔ حرامی بچہ۔ النَّعْلِيَّةُ: ایک قسم کا کپڑا جو چمڑے کو خراب کر دیتا ہے۔ نَعْمٌ (ض ن) وَنَعْمٌ (س) نَعْمًا وَنَعْمٌ وَنَعْمٌ الرَّجُلُ: گانے میں سرنکالنا۔ نَعْمٌ فِي الشَّرَابِ: تھوڑا سا پینا اور کہا جاتا ہے "سَكَتَ فَمَا نَعْمٌ بِحَرْفٍ" وہ خاموش رہا ایک حرف نہیں بولا۔ نَاعِمَةٌ مِّنَا عَمَةٌ: بہت آہستہ گفتگو کرنا۔ النَّعْمُ وَالنَّعْمُ: گانے میں سر۔ ج انعام ج اناعيم اور اسی سے انعام الموسیقی ہے۔</p>	<p>النَّعَاشُ وَالنَّعَاشُ وَالنَّعَاشِيُّ: بہت پست قدر۔ النَّعَاشُ: رزائل لوگ۔ عیار لوگ۔ نَعِضٌ (س) نَعِضًا الْبَعِيرُ: سیراب نہ ہونا۔ الرُّجُلُ: مراد پوری نہ ہونا۔ نَعِضَةٌ (ف) نَعِضًا: پانی کا حصہ روک دینا یا پوری طرح سے پینے نہ دینا۔ نَعِضٌ وَنَعِضٌ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَيْشُ وَنَعِضٌ عَيْشُهُ: زندگی مکر کر دینا۔ وَنَعِضٌ فَلَانًا: زندگی مکر کر دینا۔ انْعَضَ فَلَانًا رَعِيَّةً كَسَى كَسَى جَانُورِدُونَ كُوجِرْنَ سَ رُوكَ دِينَا۔ نَعِضٌ نَعِضًا: خود گھوٹاری کامل نہ ہونا۔ تَنَعَضَ الْعَيْشُ: مکر ہونا۔ تَنَاعَضَتِ الْأَبِلُ: هجوم کرنا۔ النَّعِضَةُ: مراد پوری کرنے سے مانع ج نَعِضٌ۔ نَعِضٌ (ن ش) نَعِضًا وَنَعُوضًا وَنَعِضَانًا: کچکی کے ساتھ ہلنا اور بے قرار ہونا۔ نَعِضُوا إِلَى الْعُدُوِّ: مقابلے کے لئے اٹھنا۔ الشُّيَّ وَالشُّيَّ: بلانا۔ نَعِضٌ نَعِضًا الشُّيَّ: بہت ہونا۔ السَّحَابُ: گھٹا ٹوپ بادل چڑھنا۔ نَعِضٌ الشُّيَّ: بلانا۔ نَعِضٌ الشُّيَّ: بلانا اور بے قرار ہونا۔ زَانَسَةٌ: سر کو تھب یا استہزاء سے بلانا۔ تَنَعِضٌ الشُّيَّ: بلانا اور بے قرار ہونا۔ النَّعِضُ: بمص۔ سر ہلانے والا۔ چلنے میں کانپنے والا۔ النَّعِضُ: فَا۔ ج نَعِضٌ. النَّعِضُ مِنَ الْإِنْسَانِ: گردن کی جڑ جہاں سے سر کی حرکت ہوتی ہے۔ عَيْشٌ نَعِضٌ: ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے چلنے والا بادل۔ وَالنَّعِضُ مِنَ الْكَيْفِ: موٹہ ہے کے کنارے کی پٹی ہڈی۔ النَّعِضُ مِنَ السَّحَابِ: ایک دوسرے کے پیچھے چلنے والا بادل۔ رَجُلٌ نَعِضٌ الْبَطْنُ: بڑے پیٹ والا جس کے پیٹ پر موٹا پے کی وجہ سے ٹھن ہو۔</p>
--	---	---

آنے کا پانی ڈالنے سے بھولنا۔
السَّفِيئَةُ: آنا جس پر پانی یا دودھ ڈالا جائے۔
السَّفَاتِيْنُ: (کیسیا) کاربن اور ہیڈروجن سے مرکب ایک سفید بلوری مادہ جس کی ہوا طاقت ور ہوتی ہے رنگ دار چیزوں کے بنانے اور کیڑوں کی مدافعت کے لئے استعمال ہوتی ہے۔

نَفَّحَ نَفْحًا الْإِنْسَانُ: غیر واقعی صفات پر فخر کرنا..... الْفُرُوجَةُ: مرغی کے بیچے کا انڈے سے لگانا..... الْأَزْنَبُ وَغَيْرُهَا: خرگوش کو بھڑ کر نکالنا..... الشَّيْءُ: بلند کرنا..... التَّبَقَاءُ: مشکیزہ بھرنا۔
نَفَّحَ الْأَزْنَبُ: خرگوش کو بھڑکا کر نکالنا..... الْحَالِبُ: دوھنے کے وقت برتن کو تھمن سے جدا کرنا۔

نَفَثَ (ن ض) نَفْثًا وَنَفَثَانًا الْبِضَاقُ مِنْ فِيهِ: منہ سے تھوک پھینکنا..... الْجَوْحُ الدَّمُ: زخم کا خون بہانا..... الرَّجُلُ: تھوکتا نَفَثَ الْحَيَّةُ السَّمُ: سانپ کا زہر نکالنا۔ نَفَثَ الْمَسْدُوْرُ: درد سیز والے کا تھوک کھنکھار وغیرہ پھینکنا۔

تَنَفَّحَ وَتَنَفَّحًا: بلند ہونا..... الرَّجُلُ: غیر واقعی صفات پر فخر کرنا۔ ڈیک مارنا۔ تَنَفَّحَتِ الرَّيْحُ عَلَى الْقَوْمِ: غفلت کی حالت میں تیز ہوا کا چلنا۔ اِنْتَفَجَ الْأَزْنَبُ: خرگوش کا دوڑنا۔ کودنا۔ کہا جاتا ہے "اِنْتَفَجَتْ مِنْهُ الْأَزْنَبُ" "اِنْتَفَجَ الْأَزْنَبُ وَغَيْرُهَا": خرگوش کو بھڑکا کر نکالنا۔ اِسْتَنْفَجَ الشَّيْءُ: نکالنا۔ ظاہر کرنا۔ کہا جاتا ہے "مَا الَّذِي اِسْتَفَجَ غَضَبُكَ" یعنی کس چیز نے تمہیں غصہ دلایا۔

الْقَلْمُ: لکھنا..... فَلَانًا: کسی پر جادو کرنا۔ کہا جاتا ہے "نَفَثَ اللَّهُ الشَّيْءَ فِي قَلْبِهِ" اللہ نے اس کے دل میں ڈالا۔ وَنَفِثَ فِى رُؤْيَايَ اَوْ قَلْبِي كَذَا: مجھے فلاں چیز کا الہام ہوا۔ "وَفَلَانٌ يَنْفِثُ عَلَى غَضَبًا" فلاں مجھ پر غصہ کی وجہ سے طیش میں ہے۔

النَّفَاحُ: فا۔ صَوْتُ نَافِحٍ: سخت و بلند آواز۔ النَّافِحَةُ: النَّفَاحُ: کا موٹ۔ بہت بارش والا۔ بادل۔ ہوا جو پہلے زور سے چلے۔ آخری پیل۔ مٹی۔ اس وجہ سے کہ وہ اپنے مہر سے باپ کے مال کو بڑھاتی ہے۔ مٹک کا ناند۔ مٹک رکھنے کا برتن۔ نَوَافِحُ: النَّافِحُ: غیر واقعی صفات پر فخر و غرور کرنے والا۔ ڈیک مارنے والا۔

نَافِثَةٌ: چپکے چپکے بات کرنا۔ النَّفْثُ: مسم۔ نغم۔ نَفَثَ الشَّيْطَانُ: غزل کے اشعار۔

النَّفِثَةُ: نَفَثُ: کا اسم مرہ۔ نَجَّ نَفَثَاتٍ کہا جاتا ہے "مَا أَحْسَنَ نَفَثَاتِ فُلَانٍ" یعنی فلاں کے اشعار کس قدر اچھے ہیں۔

النَّفَاثَةُ: تھوک وغیرہ جو درد سیز والا پھینکے۔ النَّافِثُ وَالنَّفَاثُ: جادوگر۔ مَوْنُثُ نَافِثَةٌ وَنَفَاثَةٌ: دَمٌ نَفِثٌ: زخم سے بہا ہوا خون۔ الْمَنْفُوثُ: مَفْعٌ۔ رَجُلٌ مَنْفُوثٌ: جادو کیا ہوا مرد۔

النَّفِثَةُ: کمان۔ نَجَّ نَفَاحٍ: النَّفِثُ: ایسی شخص جو کسی قوم میں شامل ہو اور نہ صحیح ہونہ مفید۔ نَجَّ نَفَاحٍ: النَّفِثُ: بوجھل اور ست لوگ اور کہا جاتا ہے "هُوَ نَفِثُ الْحَقِيْقَةِ" وہ موٹے سرین والا ہے "وَأَمْرَأَةٌ نَفِثُ الْحَقِيْقَةِ" موٹے سرین والی عورت۔

نَفِجَ (ن) نَفِجًا وَنَفِجَانًا وَنَفُوجًا الْأَزْنَبُ اَوْ الْبِرْوُوعُ: خرگوش یا جنگلی چوہے کا دوڑ کر نکل بھاگنا۔ نَفِجَتِ الرَّيْحُ: ہوا کا تیز چلنا..... الطَّرِيقُ بِالْقَوْمِ: راستہ میں قوم کا اچانک ظاہر ہونا۔

النَّفِثَةُ وَالنَّفِثَةُ وَالنَّفِثَةُ: کبریٰ کا بچہ جو ابھی صرف دودھ ہی پیتا ہو اس کے پیٹ میں سے ایک چیز نکالتے ہیں اور کپڑے میں لت پت کر لیتے

نَفِجًا وَنَفِجَانًا وَنَفُوجًا الْأَزْنَبُ اَوْ الْبِرْوُوعُ: خرگوش یا جنگلی چوہے کا دوڑ کر نکل بھاگنا۔ نَفِجَتِ الرَّيْحُ: ہوا کا تیز چلنا..... الطَّرِيقُ بِالْقَوْمِ: راستہ میں قوم کا اچانک ظاہر ہونا۔

ہیں۔
يَعْبُرُ مُنْفِثٌ: کوکھ باہر نکالا ہوا اونٹ۔
الْمَنْفُوجُ: کشادہ پہلوؤں والا اونٹ۔

نَفَّحَ (ف) نَفْحًا وَنَفْحَانًا وَنَفُوحًا وَنَفَاخًا الطَّيْبُ: خوشبو پھیلانا۔ نَفَحَتِ الرَّيْحُ: ہوا کا چلنا۔ ابتدائی ہوا کا چلنا۔ نَفَّحَ الْعَرُوقُ: رگ سے خون لگانا۔ نَفَّحَتِ الذَّابَّةُ الرَّجُلَ: کھر کے کنارے سے مارنا۔ نَفَّحَ فَلَانًا بِالسَّيْفِ: آہستہ تلوار سے مارنا۔ نَفَّحَهُ بِكَلْبًا: دینا۔ نَفَّحَ لِمَنْتَه: لنگھا کرنا..... الشَّيْءُ: دفع کرنا۔ ہٹانا۔

نَافِثَةٌ: نَافِثَةٌ: جھگڑا کرنا۔ نَافِثٌ عَنْ فُلَانٍ: کسی کی جانب سے مدافعت کرنا۔ اِنْتَفَجَ بِفُلَانٍ: سامنے آنا۔ اِنْتَفَجَ اِلَى مَوْضِعٍ كَذَا: واپس آنا۔

النَّفْحُ: مسم۔ النَّفْحُ مِنَ الرِّيَّاحِ: سردی میں ہوا کا چلنا اور گرمی میں ہوا کے چلنے کو اللَّفْحُ: کہتے ہیں۔

النَّفْحَةُ: نَفْحُ: کا اسم مرہ۔ نَفْحَةُ الدَّمِ: خون کا فوراہ۔ نَفْحَةُ الرَّيْحِ: ہوا کا جھونکا۔ نَفْحَةُ الطَّيْبِ: خوشبو کی بھڑک..... مِنْ الْأَلْبَانِ: خالص دودھ۔ النَّفْحَةُ: عطیہ۔ نَجَّ نَفْحَاتٍ: کہا جاتا ہے۔ نِبْءَةُ نَفْحٍ: بلند ارادہ۔

النَّفُوحُ مِنَ الثُّوْقِ: اونٹنی جس کے تھن سے بغیر دوھے ہوئے دودھ نکلے..... مِنْ الْقَيْسِيِّ: دور تک تیر پھینکنے والی کمان۔ رِيحٌ نَفُوحٌ: تیر چلنے والی ہوا۔

النَّفَاحُ: بہت داؤد دہش والا۔ طَعْنَةُ نَفَاخَةٍ: زور سے خون بہانے والا نیزہ۔ النَّفِثَةُ: دور تک تیر پھینکنے والی کمان۔ النَّفِثُ وَالْمَنْفِثُ: دخل در معقولات کرنے والا مرد۔

الْإِنْفِثَةُ وَالْإِنْفِثَةُ وَالْإِنْفِثَةُ: کبریٰ کا بچہ جو ابھی صرف دودھ ہی پیتا ہو اس کے پیٹ میں سے ایک چیز نکالتے ہیں اور کپڑے میں لت پت کر لیتے

ہیں پھر وہ خیر کا مانند گاڑھا ہو جاتا ہے اور عوام اس کو مجنبہ کہتے ہیں۔

نَفَخَ (ن) نَفَخًا وَنَفْخًا بِقِسْمِهِ: منہ سے پھونک مارنا۔ کہا جاتا ہے نَفَخَ فِي النَّارِ وَنَفَخَ النَّارُ: نَفَخَ النَّفْخِ: بلند ہونا۔

نَفَخَتِ الرِّيحُ: ہوا کا اچانک آنا۔ اور کہا جاتا ہے "نَفَخَ شِدْقِيهِ" یعنی اس نے تکبر کیا۔

و"نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي أَنْفِهِ" شیطان نے اس کی ناک میں پھونک دیا۔ یعنی اس نے اپنے متعلق ایسی بڑھ چڑھ کر باتیں کہیں جو حقیقتاً اس کے اندر نہیں تھیں۔ نَفَخَهُ: الطَّعَامُ: سیر کرنا۔

تَنَفَّخَ: پھولنا۔

انْتَفَخَ: پھولنا۔ انْتَفَخَ الشَّيْءُ: بلند ہونا۔۔۔۔۔

النَّهَارُ: دن چڑھنا۔۔۔۔۔ الرَّجُلُ: بڑا ہٹنا۔ تکبر کرنا۔

النَّفْخُ: فخر۔ تکبر۔ کہا جاتا ہے فَلَانَ ذُو نَفْخٍ: النَّفْخُ: جانوروں کے ٹخنوں کا ورم جو چلنے سے کم ہو جائے۔

النَّفْخُ: جوانی سے بھر پور۔ کہا جاتا ہے "شَابَ نَفْخٌ وَجَارِيَةٌ نَفْخٌ"

النَّفْخَةُ: نفخ: کا اسمِ مرۃ۔ کھانے وغیرہ سے پیٹ کا پھولنا۔ نَفْخَةُ الشَّبَابِ: کامل جوانی۔ نَفْخَةُ الرَّبِيعِ: موسم بہار کی تروتازگی۔

النَّفَاخُ: ورم جو بیماری کی وجہ سے پیدا ہو۔

النَّفَاخَةُ: پانی کا بلبلہ۔ پھجلی کے پیٹ میں ایک پھولی ہوئی چیز۔ نَجَ نَفَاخَاتٍ:

النَّفَاخُ: فا۔ کہا جاتا ہے "مَا بِالْأَدَارِ نَافِخٌ ضَرْمَةٌ" یعنی گھر میں کوئی نہیں۔

النَّفَاوُخُ: یافوخ کی تحریف ہے بمعنی چندیا۔

النَّفْيُخُ: عمس۔ جو شخص آگ پھونکنے پر مقرر ہو۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ انْفَخَانٌ وَانْفَخَانٌ وَانْفَخَانِي وَانْفَخَالِي" ہونائی کی وجہ سے پر گوشت مرد اور مؤنث تا کے ساتھ جمع کی صورت میں۔

النَّفْخَاخُ وَالنَّفْخُخُ: پھونکنی۔ لوہار کی

دھونکنی۔ نَجَ مَنَافِخُ وَنَمَافِخُ: مَنَافِخُ الشَّيْطَانِ: شیطان کے وساوس۔

النَّمْفُوحُ: مَنَعٌ۔ بڑے پیٹ والا۔ مونا۔ بزدل۔

نَفَذَ (س) نَفَذًا وَنَفَاذًا: الشَّيْءُ: نَيْتٌ وَنَابُودٌ ہونا۔ ختم ہونا۔ کہا جاتا ہے "نَفَذَ الرَّجُلُ الْقَوْمَ" قوم کا گوشہ ختم ہو گیا۔

نَفَذَ (ن) نَفَذًا الْقَوْمَ: لوگوں سے آگے بڑھ جانا۔

انْفَذَ الْقَوْمَ: بے مال و بے توشہ ہونا۔

انْفَذَتِ الْبُرُجُ: کونیں کا پانی ختم ہونا۔ انْفَذَ الشَّيْءُ: نَيْتٌ دنا بود کرنا۔۔۔۔۔ الْقَوْمَ: لوگوں کے درمیان گھس کر درمیان میں چلنا۔

نَافِذَةٌ مَنَافِذَةٌ: باہم حاکم کے پاس جانا۔ جھگڑا کرنا۔ ایک دوسرے کی حجت کو نابود کرنے کی کوشش کرنا۔

انْتَفَذَ وَاسْتَفَذَ الشَّيْءُ: نَيْتٌ دنا بود کرنا۔ اِسْتَفَذَ: پوری طاقت لگانا۔ اِنْتَفَذَ الْحَقُّ: پورا حق لینا۔۔۔۔۔ اللَّيْنُ: دودھ دھونا اور کہا جاتا ہے "انْتَفَذَ مِنْ عَدُوِّهِ" یعنی اس نے اپنے دشمن سے پورا بدلہ لے لیا۔

تَنَافَذَ الْخُضَمَانُ إِلَى الْقَاضِي: فیصلہ کے لئے جانا۔ تَنَافَذَ الْقَوْمَ: جھگڑا کرنا۔

السَّمَانُفَذُ فَخْصَمٌ مَنَافِذٌ: جھگڑے میں پوری طاقت صرف کرنے والا۔

السَّمْتَفَذُ: فا۔ اور کہا جاتا ہے "فَعَدَّ مَنْتَفَذًا" وہ گوشہ نشین ہوا۔

الْمُنْتَفَذُ: مَنَعٌ۔ کہا جاتا ہے "فِي هَذَا الشَّيْءِ مُنْتَفَذٌ عَنْ غَيْرِهِ" اس چیز میں بہ نسبت غیر کے وسعت ہے "وَفَلَانٌ مُنْتَفَذٌ فَلَانٌ" یعنی جب ایک کے پاس سے سارا مال خرچ ہو جاتا ہے تو دوسرا اپنے مال سے اس کی مدد کرتا ہے۔

نَفَذَ (ن) نَفَذًا وَنُفُوذًا وَنَفَاذًا الشَّيْءُ الشَّيْءُ: چھید کر پار ہونا۔ کہا جاتا ہے "نَفَذَ الشَّهْمُ الرَّمِيَّةَ وَفِيهَا وَمِنْهَا" تیر شکار سے چھید کر پار ہو گیا۔۔۔۔۔ فَلَانٌ الْقَوْمَ: آگے گزر

جانا (نفسدن) نُفُوذًا وَنَفَاذًا الْأَمْرُ أَوْ الْقَوْلُ: جاری ہونا۔ نافذ ہونا۔ پورا ہونا۔

نَفَذَ الْمُنْزِلَ إِلَى الطَّرِيقِ: متصل ہونا۔ نَفَذَ الطَّرِيقُ: شاہراہ عام ہونا۔ صفت نَافِذٌ. نَفَذَ الْكِتَابَ إِلَى فَلَانٍ: پہنچانا۔ نَفَذَ الرَّجُلُ فِي الْأَمْرِ: جلدی کرنا۔ ماہر ہونا۔ نَفَذَ لَوْجَهُ: اپنی حالت پر گزرنا۔

نَافِذَةٌ: فیصلہ کے لئے جانا۔

نَفَذَ وَانْفَذَ الشَّهْمُ الرَّمِيَّةَ: تیر سے شکار کو چھید کر پار کرنا۔۔۔۔۔ الْكِتَابَ إِلَى فَلَانٍ: پہنچانا۔۔۔۔۔ الْحَاكِمُ الْأَمْرَ: جاری کرنا۔ نافذ کرنا۔۔۔۔۔ الرَّجُلُ الْقَوْمَ: وسط میں چلنا۔ آگے گزر جانا و انْفَذَ عَهْدَهُ: عمل میں لانا۔

تَنَافَذَ الْقَوْمَ إِلَى الْحَاكِمِ: فیصلہ کے لئے حاکم کے پاس جانا۔

النَّفَذُ: جاری کرنا۔ کہا جاتا ہے أَمْرٌ يَنْفَذُ الْكِتَابَ: اس نے کتاب کے لکھے ہوئے کے مطابق اجرا کا حکم دیا۔ پھجن کی جگہ۔ رہائی کی جگہ۔ نَجَ انْفَاذًا اور کہا جاتا ہے "هَذِهِ طَعْنَةٌ لَهَا نَفَذٌ" یہ ضرب نیزہ ایسی ہے کہ آ رہا ہے۔

النَّفَاذُ: فا۔ ہر کام کو کر گزرنے والا۔ طَرِيقٌ نَافِذٌ: عام راستہ۔ أَمْرٌ نَافِذٌ: ایسا حکم جس کی فرمانبرداری کی جائے۔ النَّفَاذُ: یہ السَّوَالِفُ: کا واحد ہے۔ نوافذ: جسم انسانی کے ہر سوراخ کو کہتے ہیں جیسے ناک، منہ وغیرہ۔

السَّافِذَةُ: النَّافِذُ: کا مؤنث۔ روشن دان۔ سوراخ اور کہا جاتا ہے "هَذِهِ طَعْنَةٌ نَسَافِئَةٌ" یہ ضرب نیزہ آ رہا ہے۔ نَجَ نَوَافِذُ.

النَّفَاذُ وَالنَّفُوذُ: ہر کام کو کر گزرنے والا۔

النَّفِذَةُ: مہرہ۔ نَجَ نَفَذَ.

النَّفِذَةُ: نافذ۔ أَمْرٌ نَفِذٌ: نانا ہوا حکم۔

النَّمْفِذُ: گزرگاہ۔ نَجَ مَنَافِذُ.

السَّمْفِذُ: کسی چیز کے جاری ہونے کی جگہ نَجَ

مَنَافِدُ مَنَافِدِ الْإِنْسَانِ: جسم انسانی کے سوراخ جیسے منہ، ناک وغیرہ۔

الْمُنْتَفِدُ: منجائش۔ کشادگی۔

نَفَرَتْ (ض ن) نَفُورًا وَنِفَارًا وَنِفِيرًا الدَّابَّةُ مِنْ كَثْمًا: چوپائے کا بدکنا۔ ڈر کر دور ہونا۔ صفت نَافِرٌ وَنَفُورٌ۔

نَفَرَ (ض) نَفَرًا مِنْ كَثْمًا: نفرت کرنا۔ ناپسند کرنا۔ کہا جاتا ہے "نَفَرْتُ مِنْ صُحْبَةِ فَلَانٍ" مجھے فلاں کی صحبت ناپسند آئی..... عَنْ كَثْمًا: روگردانی کرنا۔ اعراض کرنا.....

الْقَوْمُ: متفرق ہونا۔ نَفَرَ إِلَى الشَّيْءِ: دوڑنا (..... نَفُورًا) وَغَيْرُهَا: آکھ کا سو جانا۔

(..... نَفَرًا) فَلَانًا: غالب آنا (..... نَفَرًا وَنَفُورًا) الْحَاكِمُ مِنْ بَنِي: کم کی طرف کوچ کرنا (..... نَفَرًا وَنَفُورًا وَنِفَارًا)

وَنَفَرَانًا) الطَّيْبُ وَغَيْرُهُ: ہرن کا بھاگنا اور دور ہونا (نِفَارًا وَنَفُورًا وَنِفِيرًا) الْقَوْمُ لِلْقِتَالِ أَوْ الْأَمْرِ: چل پڑنا۔

نَفَرَهُ: بھاگنا۔ نَفَرَهُ عَلَى فَلَانٍ: کسی پر غالب ہونے کا فیصلہ دینا۔ نَفَرَهُ الشَّيْءُ وَعَلَى الشَّيْءِ وَبِالشَّيْءِ: غالب ہونا۔ نَفَرَ عَنْ فَلَانٍ: ہرالتب دینا۔

أَنْفَرَهُ: بھاگنا۔ أَنْفَرَ الْقَوْمُ: بھاگے ہوئے اونٹوں والا ہونا..... الْقَوْمُ فَلَانًا: مدد دینا..... الْحَاكِمُ فَلَانًا عَلَى فَلَانٍ: غالب ہونے کا فیصلہ دینا۔

نَافِرَةٌ نِفَارًا وَمَنَافِرَةٌ: فیصلے کے لئے جانا۔ حسب و نسب میں فخر کرنا۔ کہا جاتا ہے "نَافِرَتُهُ إِلَى الْقَاضِي فَفَرَنِي عَلَيْهِ" میں اس کو قاضی کے پاس فیصلے کے لئے لے گیا اُس نے میرے غلبہ کا فیصلہ کیا۔

تَفَفَّرٌ: کوچ کرنا۔

تَنَافَرُ الرَّجُلَانِ: باہم فیصلے کے لئے جانا۔ باہم فخر کرنا..... الْقَوْمُ لِلْأَمْرِ: چل پڑنا۔

إِسْتَنْفَرَهُ: بھاگنا۔ اِسْتَنْفَرَ الْقَوْمُ: قوم سے مدد طلب کرنا۔ جنگ کے لئے کوچ کرنے کی درخواست کرنا..... الطَّيْبُ: ہرن کا بھاگنا۔

اِسْتَنْفَرَ فَلَانٌ بِفَوَيْبِي: کپڑے لے جا کر کم کر دینا۔

النَّفَرُ: مص۔ النَّاْفِرُ: کی جمع۔

النَّفَرُ وَالنَّفَرَةُ: بھاگنے والوں کا گروہ۔ جنگجو لوگوں کی جماعت۔ معاملہ میں آگے رہنے والوں کی جماعت۔ تین سے دس تک کی

جماعت السَّنْفَرَةُ: نَفَرٌ: کا اسم مرہ۔ نَفَرَةُ السَّرَجِلُ: خاندان کہا جاتا ہے عَفِيرٌ نَفَرٌ وَعَفِيرٌ نَفَرٌ: تابع مہمل کے طور پر مجھے خبیث و سرکش اور ایسا ہی عَفِيرَةٌ نَفَرِيَّةٌ وَعَفِيرَةٌ نَفَرِيَّةٌ وَعَفِيرَةٌ نَفَرِيَّةٌ۔

النَّفَرُ: سارے لوگ۔ تین سے دس تک مردوں کی جماعت۔ رَجُ انْفَارٌ کہا جاتا ہے "فَلَائِيَةُ نَفَرٍ أَوْ فَلَائِيَةُ انْفَارٍ" یعنی تین شخص۔ نَفَرَ الرَّجُلُ: مرد کا قبیلہ۔

يَوْمَ النَّفَرِ وَالنَّفَرِ وَالنَّفِيرِ أَوْ النَّفُورِ: حاجیوں کا سنی سے مکہ معظمہ کی طرف واپس ہونے کا دن اور وہ ذی الحجہ کی بارہویں تاریخ ہے۔

السَّنْفَرَةُ: حکم۔ فیصلہ (..... وَالنَّفَرَةُ) نَفَرَ بِد سے حفاظت کے لئے تعویذ وغیرہ۔

النَّفَارُ: مص۔ اِثْرِلٌ ہونا۔ کہا جاتا ہے "فِي السَّنَائِيَةِ نِفَارًا" چوپایہ میں اِثْرِلٌ ہونے کی عادت ہے۔

السَّنْفَارَةُ: حکم۔ فیصلہ۔ مغلوب سے جو غالب لے۔

النَّاْفِرُ: فَا۔ غالب۔ رَجُ نَفَرٌ وَنَفَرٌ النَّاْفِرَةُ النَّاْفِرُ: کا مؤنث۔ نَافِرَةُ الرَّجُلِ وَنَفُورَتُهُ: مرد کا خاندان۔

النَّفُورُ وَالنَّفُورُ وَالْمُسْتَنْفِرُ: بھاگنے والا۔ بہت تیز بھاگنے والا۔

النَّفِيرُ: مص۔ دس مردوں سے کم کی جماعت۔ کوچ کرنے والوں کی جماعت یا جنگجو لوگوں کا گروہ۔ النَّفِيرُ: بگل (دخیل) رَجُ انْفَارٍ. وَالنَّفِيرُ الْعَامُ: دشمن سے مقابلہ کے لئے عوام کا اٹھ کھڑا ہونا اور کہا جاتا ہے "مَا هُوَ بِنَفِيرِ فَلَانٍ" وہ فلاں کا فخر کرنے

میں مساوی نہیں۔

النَّافِرُ: عیسائیوں کے نزدیک: قربان مقدس کاراز۔ مخصوص عبادتیں۔

النَّفَارِيُّ: پڑا۔ پڑے۔ واحد نَفَرٌ وَرَجُلٌ۔

المُسْتَنْفِرُ: مبع۔ ڈرایا ہوا۔

النَّفُورُ: مبع۔ مغلوب۔

نَفَرَخٌ نَفَرَخَةٌ: بہت بات کہنا۔

النَّفِيرُجُ وَالنَّفِيرُجَةُ وَالنَّفِيرُجَةُ وَالنَّفِيرُجَةُ وَالنَّفِيرُجَةُ: بزدل۔ ڈر پوک۔

النَّفِيرُجُ: بہت کہنے والا۔

نَفَرَ (ض) نَفَرًا وَنَفُورًا وَنَفَرَانًا الطَّيْبُ: ہرن کا کودنا۔ اُجھلنا۔ چھلانگ مارنا..... الرَّجُلُ: مرنا۔

نَفَرَهُ: کودنا۔ نَفَرْتُ الْمَرْأَةُ وَلَدَهَا: عورت کا بچے کو اُجھلانا۔ نَفَرُوا وَأَنْفَرُ السَّهْمُ: تیر کی درستی کو دیکھنے کے لئے ناخن پر گھمانا۔

تَنَافَرُوا: باہم اُجھلنا کودنا۔

النَّفِيرُجُ وَالنَّفِيرُجَةُ: بکھن جو مگلی میں ادھر ادھر لگا ہوا رہ جائے۔

النَّفِيرُجُ مِنَ الطَّبَاءِ: ہرن چھلانگ مارنے والا۔

نَوَافِرُ الدَّابَّةِ: جانوروں کی ٹانگیں۔

النَّفَارُ: ایک قسم کا کھیل جس میں باہم کودتے ہیں۔

نَفَسٌ (س) نَفَسًا وَنَفَاسِيَةً بِالشَّيْءِ: بخل کرنا..... عَلَسِي فَلَانٌ بِخَيْرٍ: حد کرنا (..... نَفَاسَةً) الشَّيْءِ: عَلَى فَلَانٍ: نا اہل سمجھنا۔

نَفَسَةٌ (ن) نَفَسًا بِنَفْسٍ (ای بعین) نظر بد لگانا۔

نَفَسَتْ (س) وَنَفَسَتْ وَنَفَسًا وَنَفَاسَةً وَنَفَاسًا: الْمَرْأَةُ غُلَامًا: زچہ ہونا۔ بچہ بننا۔

نَفَسَ فَلَانٌ: پیدا ہونا۔ صفت مَنَفُوسٌ کہا جاتا ہے "وَرثَ فَلَانٌ هَذَا قَبْلَ أَنْ يُنْفَسَ" فلاں اس کا پیدا ہونے سے پہلے وارث ہوا۔

نَفَسٌ (ك) نَفَاسَةً وَنَفَاسًا وَنَفُوسًا

ونفسا: نفس و مرغوب ہونا۔

نَفْسٌ تَنْفِيْسًا عَنْهُ الْكُرْبِيَّةُ: غم دور کرنا۔ غم سے رہائی دینا۔ کہا جاتا ہے "نَفْسٌ فَلَانًا" اس نے فلاں کو مہلت دی یا اس کے غم کو زائل کیا نَفْسَهُ فِي الْأَمْرِ: ترغیب دینا۔

نَافِسٌ بِنَافِسًا وَمُنَافِسَةٌ فَلَانًا فِي الْأَمْرِ: باہم فخر کرنا۔ باہم مقابلہ کرنا۔ فی الشئی: مبالغہ کرنا۔ گراں قیمت کرنا۔ کرم میں مقابلے کی رغبت کرنا۔

أَنْفَسَ الشَّيْءُ: نفس ہونا۔ الشئی فَلَانًا: پسند آنا۔ فَلَانًا فِي الشَّيْءِ: رغبت دلاتا۔

تَنْفَسَ: سانس لینا۔ الصُّبْحُ: صبح کا روشن ہونا۔ الْقَوْمُ: کمان کا چھٹنا۔ النُّهْرُ: نہر میں زیادہ پانی ہونا۔ النهارُ: دوپہر ہونا۔

الرَّجُلُ: لمبی لمبی باتیں کرنا۔ الرَّجُلُ فِي الْإِنَاءِ: برتن بغیر جدا کئے ہوئے پانی پینا۔ تین سانس میں پانی پینا (اضداد میں سے ہے)

حَدِيثٌ مِّنْ بَيْتِ "إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْفَسُ فِي الْإِنَاءِ وَيَنْهَى عَنِ التَّنْفَسِ فِي الْإِنَاءِ" جناب نبی ﷺ تین سانس میں پانی پیتے تھے اور ایک سانس میں پانی پینے سے منع فرماتے تھے اور کہا جاتا ہے "تَنَفَسَ الصُّعْدَاءُ" یعنی اس نے سھکن یا غم کی وجہ سے لمبے لمبے سانس لئے۔

تَنَافَسَ الْقَوْمُ فِي الْأَمْرِ: مبالغہ کرنا۔ بطریق مقابلہ کے لئے رغبت کرنا۔

النَّفْسُ: بھس۔ روح۔ خون۔ کہا جاتا ہے "وَفَقَّ نَفْسًا" اس کا خون اچھل کر نکلا۔ بدن کہا جاتا ہے "هُوَ عَظِيمُ النَّفْسِ" یعنی وہ بڑے جسم کا ہے۔ نظر بد۔ کہا جاتا ہے "أَصَابَتْهُ نَفْسٌ" یعنی اسے نظر بد لگی۔ شخص۔

نَفْسُ الشَّيْءِ: عین شئی اور یہ بطور تاکید بھی مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے "جَاءَهُ فِي هُوَ نَفْسُهُ وَبِنَفْسِهِ" یعنی وہ خود ہی آیا۔ نَفْسُ الْأَمْرِ: حقیقت امر۔ النَّفْسُ:

عظمت۔ ہمت۔ عزت۔ ارادہ۔ رائے۔ عیب۔ سزا۔ پانی۔

..... نفس سے مراد اگر روح ہو تو مؤنث ہے جیسے حَزَجَتْ نَفْسَهُ: اور اگر شخص مراد ہو تو مذکر ہے جیسے عَنَدِيْ خُضَّةٌ عَشْرَ نَفْسَاتٍ

النَّفْسُ وَنَفُوسٌ اور کہا جاتا ہے "فِي نَفْسِيْ أَنْ أَفْعَلَ كَذَا" میرا ارادہ ہے کہ ایسا کروں "وَفَلَانٌ يُؤَاْمِرُ نَفْسِيْهِ وَيُشَاوِرُهَا" یعنی

فلاں اپنے معاملہ میں متردد ہے اور اس کی دورائیں ہیں اور کسی پر استقلال نہیں "وَأَخْرَجَتْ نَفْسُهُ وَجَادًا بِنَفْسِهِ" یعنی وہ مر گیا۔

النَّفْسُ: بھس۔ جھونکا۔ سانس۔ گنجائش۔ مہلت۔ کشادگی۔ کہا جاتا ہے "إِعْمَلُوا الْخَيْرَ وَأَنْتُمْ فِي نَفْسِ الْبَقَاءِ" خیر کا عمل کرو۔ اس حال میں کہ تم کو زندگی کی مہلت حاصل ہے۔ لمبی گنتگو۔ کہا جاتا ہے "كَسَبَ كَسَابًا نَفْسًا" اس نے لمبا خط لکھا۔ گھونٹ جیسے "أَكْرَعَ مَا فِي الْإِنَاءِ نَفْسًا وَأَجْسَدًا" برتن میں جو کچھ ہے اس کو ایک گھونٹ میں پی جاؤ۔ نَجَّ أَنْفَاسٌ اور کہا جاتا ہے "هَذَا شَرَابٌ ذُو نَفْسٍ" یعنی خوشگوار ہے۔ وَنَفْسُ السَّاعَةِ: آخری زمانہ و نَفْسُ الشَّاعِرِ او المَوْلَفِ: طرز تحریر۔

النَّفْسُ: بھس۔ زچگی۔ ولادت کے بعد کا خون۔

النَّفْسَةُ: مہلت۔ کہا جاتا ہے "لَكَ فِي الْأَمْرِ نَفْسَةٌ" تمہارے لئے معاملے میں گنجائش ہے۔

النَّفَافِسُ: فا۔ حاسد۔ بیش قدر۔ نظر بد والا۔ جوئے کا پانچواں یا چوتھا تیر۔

النَّفِيسُ: بہت مال۔ شئی نفیس: مرغوب و قیمتی چیز اور اس کے مقابلے میں خیس آتا ہے۔ رَجُلٌ نَفِيسٌ: حاسد مرد۔

مَالٌ نَفِيسٌ وَنَفِيسٌ وَنَفِيسٌ: بہت مال۔ الْأَنْفَاسُ: اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے "هَذَا الشُّبُوبُ أَنْفَاسٌ مِنْ ذَاكَ" یہ کپڑا اس سے

بہتر ہے "وَهَذَا الْمَكَانُ أَنْفَاسٌ مِنْ هَذَا" یہ جگہ اس سے وسیع ہے "وَهَذَا أَنْفَسُ مَالِي" یہ میرا مرغوب مال ہے۔

النَّفَسَاءُ النَّفَسَاءُ وَالنَّفَسَاءُ: زچہ۔ مشی نَفَسَاوَانٌ. نَجَّ نَفَاسٌ وَنَفْسٌ وَنَفْسٌ وَنَفَاسٌ وَنَوَافِسٌ وَنَفَسَاوَاتٌ.

النَّفُوسُ: حاسد نگاہیں۔ الْمَنَّفُوسُ: نوبید پچھ۔ شئی مَنَّفُوسٌ: مرغوب چیز۔

المُنْفَسُ: فا۔ بیش قدر چیز۔ الْمُتَنَفَسُ: سانس لینے کی جگہ۔ نَفْسٌ (ن) نَفَسًا وَنَفْسٌ الْقَطْنَ او الصُّوفُ: روئی یا اون دھنا۔

نَفْسٌ نَفُوسًا الْقَوْمُ: ارزائی میں ہونا۔ فَلَانٌ عَلَى الشَّيْءِ: کھانے کے لئے متوجہ ہونا۔

نَفَسَتْ (عُضُن) وَنَفَسَتْ (س) نَفَسًا الْإِبِلُ او الْعَنَمُ: اونٹ یا بکریوں کا بغیر چرواہے کے لئے رات میں رنا۔ صفت نَافِيسَةٌ وَنَفَاسٌ وَنَوَافِيسٌ وَنَفْسٌ اور اسم النفس.

أَنْفَسَ الرَّاعِي الْإِبِلَ: چرواہے کا اونٹ کو رات میں چرنے کے لئے چھوڑنا۔

تَنَفَّسَ الطَّائِفُ: پرندہ کا پروں کو چھڑانا۔ تَنَفَّسَتْ الْإِبِلُ: اونٹ کا بغیر چرواہے کے رات میں چرنا۔ تَنَفَّسَتْ وَانْتَفَّسَتْ الْهَيْرَةُ: لمبی کابل کھڑے کرنا۔ وَانْتَفَّسَ الصُّوفُ: دھنی ہوئی ہونا۔

النَّفْسُ: دھنی ہوئی اون۔ متفرق سامان۔ کثرت کلام و کثرت دعویٰ۔ کہا جاتا ہے "بَلَدٌ ذُو نَفْسٍ" یعنی سرسبز و شاداب شہر۔

إِبِلٌ او عَنَمٌ نَفْسٌ: بغیر چرواہے کے رات میں چرنے والے اونٹ یا بکریاں۔ نفس کا اطلاق صرف رات ہی میں چرنے پر ہوتا ہے اور رات میں کثرت اور دنوں پر۔

النَّفِيسُ: برتن میں متفرق سامان۔ کہا جاتا ہے "بَقَرٌ او عَنَمٌ نَفْسٌ وَنَوَافِيسٌ

ہے

وَنَفَاشٌ "رات میں بغیر چرواہے کے چرنے والی گائیں یا بکریاں۔

النَّفَاشُ: مغرور۔ پھلانے والا۔ ایک قسم کا بڑا بیوں۔

السُّقْفِيشُ وَالْمُنْفِيشُ: پھولا ہوا اور نرم کہا جاتا ہے "أَنْفٌ مُنْفِيشٌ وَمُنْفِيشٌ" چپٹی ناک۔

نَفَضٌ (ض) نَفَضًا وَأَنْفَضَ بِبَوْلِهِ: پیشاب کرنا۔ نَفَضٌ وَأَنْفَضَ بِالْكَلِمَةِ: جلدی بولنا۔

أَنْفَضَ فِي الصَّخْبِكِ: بہت ہنسنا۔ الشَّاةُ بِبَوْلِهَا: بکری کا تھوڑا تھوڑا پیشاب کرنا۔

السَّرْجُلُ بِشَفْتَيْهِ: ہونٹوں سے اشارہ کرنا۔

النَّفْضَةُ: خون کا فوارہ۔ ج نَفَضَ۔

النَّفَاضُ: بکریوں کی ایک بیماری جس میں بار بار پیشاب آتا ہے یہاں تک کہ مر جاتی ہے۔

النَّفِيسُ: خوش گوار پانی۔

الْمِنْفَاضُ: بہت ہنسنے والا۔

نَفَضٌ (ن) نَفَضًا الثَّوْبُ: کپڑا اجمارنا۔ الشَّجَرَةُ: درخت سے پھل گرانے کے لئے

بلا نا۔ السُّوزُوقُ مِنَ الشَّجَرِ: پتے گرانے الْمَمْكَانُ: اچھی طرح دیکھ بھال کرنا۔

نَفَضْتَهُ الْخَمِي: بخارا آنا۔ كَيْفِيَانَا: نَفَضَ الزَّرْعُ: آخری خوش نکالنا۔ نَفَضْتَ الْإِبِلُ:

سارے بیچے جننا۔ السَّمْرَةُ: بہت بیچوں والی ہونا۔ نَفَضَ الْقَوْمُ: بے توشہ یا بے ماں ہونا۔ نَفَضَ الطَّرِيقُ: تلاش و جستجو کرنا

چوروں سے پاک کرنا۔ الْقَوْمُ حَلَا يُبْهَمُ: دودھ دینے والے چوروں کا سارا

دودھ نکال لینا۔ نَفَضَ الثَّوْبُ: او الضَّبْعُ: رنگ کا مدھم پڑنا۔ الْكَوْمُ: انگوڑی

تیل میں چھے ٹھکانا۔ فَلَانِي: چاروں طرف دیکھنا۔ کہا جاتا ہے "إِذَا تَكَلَّمْتَ نَهَارًا

فَأَنْفَضَ" جب دن میں گفتگو کرو تو ادھر ادھر دیکھ لو۔

نَفَضٌ (ن) نَفَضًا الثَّوْبُ: کپڑا اجمارنا۔ الشَّجَرَةُ: درخت سے پھل گرانے کے لئے

بلا نا۔ السُّوزُوقُ مِنَ الشَّجَرِ: پتے گرانے کے لئے جھجھکا کرنا۔

نَفَضْتُ الثَّوْبَ: کپڑا اجمارنا۔ الشَّجَرَةُ: درخت سے پھل گرانے کے لئے جھجھکا کرنا۔ السَّمْرَةُ: بہت بیچوں والی ہونا۔ نَفَضَ الْقَوْمُ: بے توشہ یا بے ماں ہونا۔ نَفَضَ الطَّرِيقُ: تلاش و جستجو کرنا

چوروں سے پاک کرنا۔ الْقَوْمُ حَلَا يُبْهَمُ: دودھ دینے والے چوروں کا سارا

دودھ نکال لینا۔ نَفَضَ الثَّوْبُ: او الضَّبْعُ: رنگ کا مدھم پڑنا۔ الْكَوْمُ: انگوڑی

تیل میں چھے ٹھکانا۔ فَلَانِي: چاروں طرف دیکھنا۔ کہا جاتا ہے "إِذَا تَكَلَّمْتَ نَهَارًا

فَأَنْفَضَ" جب دن میں گفتگو کرو تو ادھر ادھر دیکھ لو۔

نَفَضْتُ الثَّوْبَ: کپڑا اجمارنا۔ الشَّجَرَةُ: درخت سے پھل گرانے کے لئے جھجھکا کرنا۔ السَّمْرَةُ: بہت بیچوں والی ہونا۔ نَفَضَ الْقَوْمُ: بے توشہ یا بے ماں ہونا۔ نَفَضَ الطَّرِيقُ: تلاش و جستجو کرنا

چوروں سے پاک کرنا۔ الْقَوْمُ حَلَا يُبْهَمُ: دودھ دینے والے چوروں کا سارا

دودھ نکال لینا۔ نَفَضَ الثَّوْبُ: او الضَّبْعُ: رنگ کا مدھم پڑنا۔ الْكَوْمُ: انگوڑی

تیل میں چھے ٹھکانا۔ فَلَانِي: چاروں طرف دیکھنا۔ کہا جاتا ہے "إِذَا تَكَلَّمْتَ نَهَارًا

فَأَنْفَضَ" جب دن میں گفتگو کرو تو ادھر ادھر دیکھ لو۔

نَفَضْتُ الثَّوْبَ: کپڑا اجمارنا۔ الشَّجَرَةُ: درخت سے پھل گرانے کے لئے جھجھکا کرنا۔ السَّمْرَةُ: بہت بیچوں والی ہونا۔ نَفَضَ الْقَوْمُ: بے توشہ یا بے ماں ہونا۔ نَفَضَ الطَّرِيقُ: تلاش و جستجو کرنا

چوروں سے پاک کرنا۔ الْقَوْمُ حَلَا يُبْهَمُ: دودھ دینے والے چوروں کا سارا

دودھ نکال لینا۔ نَفَضَ الثَّوْبُ: او الضَّبْعُ: رنگ کا مدھم پڑنا۔ الْكَوْمُ: انگوڑی

تیل میں چھے ٹھکانا۔ فَلَانِي: چاروں طرف دیکھنا۔ کہا جاتا ہے "إِذَا تَكَلَّمْتَ نَهَارًا

فَأَنْفَضَ" جب دن میں گفتگو کرو تو ادھر ادھر دیکھ لو۔

نَفَاضٌ. النَّفَاضُ: نکلنے والی پھینک کر آئندہ کی خبر دینے والے۔ دبلے اونٹ۔

الْإِنْفَاضُ: مہل۔ بھوک۔ حاجت۔ الْإِنْفَاضِيُّ: درخت کے نیچے گرنے ہوئے پھل۔ واحد انْفُوضَةٌ.

الْمِنْفَاضُ: جھاج۔ سوپ۔ پکھا۔ (.....) وَالْمِنْفَاضُ: چادر وغیرہ جسے بچھا کر پتے یا میوے جھاڑیں۔

الْمُنْفِضُ مِنَ الذَّجَاجِ: مرغی جو انڈے دے کر رک گئی ہو۔ الْمُنْفُوضُ: مہل۔ تپ۔ لرزہ زدہ۔

نَفَطٌ (س) نَفَطًا وَنَفَطًا وَنَفِيطًا: بڈہ۔ ہاتھ کا آبلہ دار ہونا۔

نَفَطٌ (ض) نَفَطًا: غھبناک ہونا یا غھسے سے بھڑک اٹھنا۔

نَفَطْتُ (ض) نَفَطًا وَنَفِيطًا: بکری کا چھینکنا۔ الْقَيْدُ: ہانڈی کا جوش مارنا۔

نَفَطُ الطَّيِّ: ہرن کا آواز کرنا۔ الرِّجْلُ بِمِمْ نَفَطُوا: کرنا۔ تَنَفَطَتِ الْقَيْدُ: ہانڈی کا جھاگ پھینکنا۔

تَنَفَطَ: غھبناک ہونا یا غھسے سے بھڑک اٹھنا۔ تَنَفَطَتِ الْيَدُ: ہاتھ کا زخمی ہونا یا آبلہ والا ہونا۔

النَّفَطُ وَالنَّفِطُ: ایک قسم کا معدنی تیل جو بہت جلد آگ پکڑ لیتا ہے اور جس سے آگ جلانے کا کام لیتے ہیں اور اس سے علاج بھی کرتے ہیں۔ النَّفِيطُ: بچک۔

آبلہ۔ آج کل کی زبان میں نَفَطُ کا اطلاق مٹی کے تیل پر بھی ہے۔

النَّفَطَةُ وَالنَّفِطَةُ: آبلہ بچک۔ النَّفِطَةُ: جلدی غھبناک ہونے والا۔

النَّفِيطَةُ: بکری۔ يَدٌ نَفِيطَةٌ: آبلہ دار ہاتھ رُغْوَةٌ نَفِيطَةٌ: بلبلہ والے جھاگ۔

النَّفِطُ: معدن سے نَفَطُ نکالنے والا۔ نَفَطٌ: چھینکنے والا۔ ج نَفَطًا وَنَفَاطُونَ.

النَّفَاطَةُ وَالنَّفَاطَةُ: نَفَطُ: کا معدن۔ ایک قسم کا چراغ۔ تانبے کا ایک آلہ جس سے

النَّفِيطَةُ وَالنَّفِيطَةُ: بکری۔ يَدٌ نَفِيطَةٌ: آبلہ دار ہاتھ رُغْوَةٌ نَفِيطَةٌ: بلبلہ والے جھاگ۔

النَّفِطُ: معدن سے نَفَطُ نکالنے والا۔ نَفَطٌ: چھینکنے والا۔ ج نَفَطًا وَنَفَاطُونَ.

النَّفَاطَةُ وَالنَّفَاطَةُ: نَفَطُ: کا معدن۔ ایک قسم کا چراغ۔ تانبے کا ایک آلہ جس سے

النَّفِيطَةُ وَالنَّفِيطَةُ: بکری۔ يَدٌ نَفِيطَةٌ: آبلہ دار ہاتھ رُغْوَةٌ نَفِيطَةٌ: بلبلہ والے جھاگ۔

النَّفِطُ: معدن سے نَفَطُ نکالنے والا۔ نَفَطٌ: چھینکنے والا۔ ج نَفَطًا وَنَفَاطُونَ.

النَّفَاطَةُ وَالنَّفَاطَةُ: نَفَطُ: کا معدن۔ ایک قسم کا چراغ۔ تانبے کا ایک آلہ جس سے

النَّفِيطَةُ وَالنَّفِيطَةُ: بکری۔ يَدٌ نَفِيطَةٌ: آبلہ دار ہاتھ رُغْوَةٌ نَفِيطَةٌ: بلبلہ والے جھاگ۔

النَّفِطُ: معدن سے نَفَطُ نکالنے والا۔ نَفَطٌ: چھینکنے والا۔ ج نَفَطًا وَنَفَاطُونَ.

النَّفَاطَةُ وَالنَّفَاطَةُ: نَفَطُ: کا معدن۔ ایک قسم کا چراغ۔ تانبے کا ایک آلہ جس سے

النَّفِيطَةُ وَالنَّفِيطَةُ: بکری۔ يَدٌ نَفِيطَةٌ: آبلہ دار ہاتھ رُغْوَةٌ نَفِيطَةٌ: بلبلہ والے جھاگ۔

النَّفِطُ: معدن سے نَفَطُ نکالنے والا۔ نَفَطٌ: چھینکنے والا۔ ج نَفَطًا وَنَفَاطُونَ.

النَّفَاطَةُ وَالنَّفَاطَةُ: نَفَطُ: کا معدن۔ ایک قسم کا چراغ۔ تانبے کا ایک آلہ جس سے

النَّفِيطَةُ وَالنَّفِيطَةُ: بکری۔ يَدٌ نَفِيطَةٌ: آبلہ دار ہاتھ رُغْوَةٌ نَفِيطَةٌ: بلبلہ والے جھاگ۔

النَّفِطُ: معدن سے نَفَطُ نکالنے والا۔ نَفَطٌ: چھینکنے والا۔ ج نَفَطًا وَنَفَاطُونَ.

النَّفَاطَةُ وَالنَّفَاطَةُ: نَفَطُ: کا معدن۔ ایک قسم کا چراغ۔ تانبے کا ایک آلہ جس سے

النَّفِيطَةُ وَالنَّفِيطَةُ: بکری۔ يَدٌ نَفِيطَةٌ: آبلہ دار ہاتھ رُغْوَةٌ نَفِيطَةٌ: بلبلہ والے جھاگ۔

النَّفِطُ: معدن سے نَفَطُ نکالنے والا۔ نَفَطٌ: چھینکنے والا۔ ج نَفَطًا وَنَفَاطُونَ.

النَّفَاطَةُ وَالنَّفَاطَةُ: نَفَطُ: کا معدن۔ ایک قسم کا چراغ۔ تانبے کا ایک آلہ جس سے

النَّفِيطَةُ وَالنَّفِيطَةُ: بکری۔ يَدٌ نَفِيطَةٌ: آبلہ دار ہاتھ رُغْوَةٌ نَفِيطَةٌ: بلبلہ والے جھاگ۔

النَّفِطُ: معدن سے نَفَطُ نکالنے والا۔ نَفَطٌ: چھینکنے والا۔ ج نَفَطًا وَنَفَاطُونَ.

النَّفَاطَةُ وَالنَّفَاطَةُ: نَفَطُ: کا معدن۔ ایک قسم کا چراغ۔ تانبے کا ایک آلہ جس سے

نَفَط اور آگ پھینکا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے "خَرْجُ النَّفَاطُونَ بِأَيْدِيهِمْ النَّفَاطَاتُ" نفط پھینکنے والے اس حال میں نکلے کہ ان کے ہاتھوں میں نفط پھینکنے کے آلات تھے۔ النَّفَاطَةُ: پھینسی۔
النَّفْطَانُ: کھانسی کے مشابہ۔ عصر کے وقت پھولنا۔

النَّفِيطُ وَالْمَنْفُوطُ: ہاتھ میں آبلہ والا۔
مَوْتٌ نَفِيطَةٌ وَمَنْفُوطَةٌ.
النَّفَاطِيُّ: متفرق گھاس یا موسم بہار کی پہلی گھاس۔ واحد نَفْطُورَةٌ.
نَفَعَهُ (ف) نَفْعًا بِكَذَا: نفع دینا۔
إِنْفَعُ الرَّجُلُ: لاشیوں کی تجارت کرنا۔
إِنْتَفَعُ بِهِ وَمِنْهُ: فائدہ اٹھانا۔
اسْتَنْفَعَهُ: فائدہ طلب کرنا۔
النَّفْعُ: فائدہ۔ نفع۔ خیر جو مطلوب تک پہنچنے کا ذریعہ ہو۔

النَّفَاعُ وَالنَّفِيعَةُ: منفعت۔ فائدہ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ خَاصِرُ النَّفِيعَةِ" اس کا نفع موجود ہے۔
النَّفْعَةُ: نفع: کا اسم مرہ۔ لاشی اس وجہ سے کہ اس کی مار سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔
ج نَفَعَاتُ.
النَّفِيعَةُ: نفع: کا اسم نوح۔ چڑے کا کلا جو توشہ دان کے دونوں جانب لگا ہوتا ہے ج نفع و نفع۔
النَّفَاعَةُ: ہر وہ چیز جس سے نفع اٹھایا جائے۔
النَّفَاعُ: فَا: اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے۔

النَّفْعِيُّ: منفعی مذہب کا قائل النفعیہ: وہ مذہب جس کے ماننے والے خالص منفعت کے قائل ہیں۔

النَّفَاعَةُ: جس چیز سے فائدہ اٹھایا جائے۔ کہا جاتا ہے "مَا نَفَعُنِي فَلَانٌ بِنَافِعَةٍ" فلاں نے مجھ کو کچھ بھی نفع نہیں پہنچایا۔

النَّفَاعُ: بہت فائدہ پہنچانے والا۔
النَّفُوعُ: بہت فائدہ پہنچانے والا۔ ج نفع۔

الْمَنْفَعَةُ: ہر چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ فائدہ۔ ج مَنْفَعٌ. مَنْفَعُ الدَّارِ: گھر میں آرام کی چیزیں۔ جیسے کنواں اور دھونے دھانے کی جگہ وغیرہ۔

نَفَعْتُ (ف) نَفْعًا وَنَفُوعًا وَنَفَعْتُ (س) نَفْعًا وَتَنَفَعْتُ يَدُهُ: ہاتھ کا آبلہ دار ہونا۔ کام کرنے کی وجہ سے سوچ جانا۔

نَفَقَ (ن) نَفَاقًا وَنَفَقَ (س) نَفَقًا الشَّيْءُ: ختم ہونا۔ کم ہونا۔ نَفَقَ الْمَيْعُ: خرید و فروخت رائج ہونا۔ نَفَقَتِ السُّوفِي: گرم بازار ہونا۔

نَفَقَ (ن) نَفُوقًا الرَّجُلُ أَوْ الدَّابَّةُ: مرنا۔ روح نکلنا۔۔۔۔۔ الْجَوْحُ: زخم کا چھل جانا۔
نَفَقَ (ن) وَنَفَقَ (س) نَفَقًا السَّرْبُوعُ: جنگلی چوہے کا سوراخ سے نکلنا۔ سوراخ میں داخل ہونا۔ (ضد)

نَافِقٌ مُنَافِقَةٌ وَنَافِقًا فِي دِينِهِ: دل میں کفر چھپا کر زبان سے ایمان ظاہر کرنا۔ صفت مُنَافِقٌ. نَافِقُ السَّرْبُوعُ: جنگلی چوہے کا سوراخ میں داخل ہونا۔

أَنفَقَ: محتاج ہونا۔ توشہ ختم ہونا۔۔۔۔۔ الْمَالُ: خرچ کرنا۔۔۔۔۔ السَّلْعَةُ: سامان رائج کرنا۔۔۔۔۔ الْقَوْمُ: رائج تجارت والی قوم ہونا۔۔۔۔۔ الرَّجُلُ: سامان کو رائج پانا۔

تَنَفَّقَ السَّرْبُوعُ: جنگلی چوہے کو سوراخ سے نکالنا۔۔۔۔۔ السَّرْبُوعُ: جنگلی چوہے کا سوراخ سے نکلنا۔ سوراخ میں داخل ہونا (ضد)

إِنْتَفَقَ الرَّجُلُ: سرگم میں داخل ہونا۔ السَّرْبُوعُ: جنگلی چوہے کا سوراخ میں داخل ہونا۔ سوراخ سے نکلنا (ضد)۔۔۔۔۔ السَّرْبُوعُ: جنگلی چوہے کا سوراخ سے نکالنا۔

إِسْفَقَ الْمَالُ: مال ختم کرنا۔
النَّفَقُ: سرگم۔ ج انفاق۔
النَّفَقُ: جلدی منقطع ہونے والا۔ کہا جاتا ہے قُرْسٌ نَفَقَ الْعُزْمَى: جلدی ٹھکنے والا گھوڑا۔
النَّفَاقُ وَالْمُنَافِقَةُ: مص۔ منافق کا فعل۔

النَّفَقَةُ: انفاق: کا اسم۔ خرچ۔ ج نَفَقَاتُ وَنَفَاقٌ وَانْفَاقٌ.

النَّفَاقِيُّ: فَا:۔۔۔۔۔ مِنَ الْبُضَالِ: رائج سامان۔
النَّفَاقَةُ: النَّفَاقِيُّ: کا مؤنث۔ مشک کا تافہ۔

النَّفَاقَةُ ج نَوَافِقُ وَالنَّفَقَةُ وَالنَّفَقَاءُ: جنگلی چوہے کے پوشیدہ سوراخوں میں سے ایک سوراخ۔

نَيْفِقُ السَّرْوَالُ: پاجامہ کا نیشہ۔
الْمِنْفَاقُ: بہت خرچ کرنے والا۔
الْمُنَافِقُ: دل میں کفر اور زبان سے ایمان ظاہر کرنے والا۔

الْمُنْفَقَةُ: باعث رواج پذیر اور اسی سے ہے "التَّجْمِينُ الْمَكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلْسَّلْعَةِ" مَسْحَقَةٌ لِلْبُرُوعِ" یعنی جھوٹی قسم سامان کو رائج کر دیتی ہے لیکن برکت کو نیست و نابود کر دیتی ہے۔

النَّفَكَةُ: کان کی لو کے قریب جبرے کی جڑ میں چھوٹے چھوٹے غدود۔

نَفَلَ (ن) نَفْلًا: قسم کھانا۔۔۔۔۔ الرَّجُلُ: کسی کو بغیر ارادہ ثواب کے عطیہ دینا۔ نَفَلَهُ

النَّفْلُ: زائد عطیہ دینا۔ نَفَلَ الْقَائِدُ الْجُنُودَ: مال غنیمت تقسیم کرنا۔۔۔۔۔ الرَّجُلُ عَنْ نَسَبِهِ: نفی کرنا۔ کہا جاتا ہے "أَنفَلَ عَنْ نَفْسِكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا" یعنی جو کچھ تمہارے بارے میں کہا جاتا ہے اس کو دور کرو اگر تم سچے ہو۔

نَفَلَهُ: قسم کھانا۔ حصہ سے زائد دینا۔ نَفَلَهُ النَّفْلَ: غنیمت دینا۔ نَفَلَ عَنْ فَلَانٍ: دفع کرنا۔ ہٹانا۔

أَنفَلَ النَّفْلَ: غنیمت دینا۔ أَنفَلَ لَهُ: قسم کھانا۔
تَنَفَّلَ: نفل نماز ادا کرنا۔۔۔۔۔ عَلِيٌّ أَصْحَابِهِ: مال غنیمت میں سے ساتھیوں سے زیادہ حصہ لینا۔ وَتَنَفَّلَ مِنْهُ الشَّيْءُ: طلب کرنا۔

إِنْتَفَلَ: نوافل پڑھنا۔۔۔۔۔ الشَّيْءُ مِنْ فَلَانٍ: طلب کرنا۔۔۔۔۔ مِنْ الْأُمْرِ

والکلام: بیزار ہونا۔ کہا جاتا ہے "قَالَ لِي قَوْلًا قَاتَسَقَلْتُ مِنْهُ" اس نے مجھ سے ایک بات بیان کی تو میں نے اس سے بیزاری ظاہر کی..... مِنْ الْقَوْمِ: قوم کی مدد سے دور رہنا۔ انْتَقَلَ: عذر بیان کرنا۔ قسم کھانا۔

النَّفْسُ: فرائض و واجبات سے زائد کام واجبات و فرائض سے زائد کام جو کرنے کو کہا جائے۔

النَّفْلُ: غنیمت۔ بہہ۔ زیادتی۔ کہا جاتا ہے "لِهَذَا نَفَلَ عَلَيَّ ذَاكَ" اس چیز کو اس پر زیادتی ہے۔ نِصَالُ وَالنَّفْلُ: النفل: ایک خوشبودار قسم کی گھاس جس سے گھوڑے موئے ہوتے ہیں واحد نَفْلَةٌ.

السَّافِلَةُ: غنیمت۔ عطیہ۔ فرائض و واجبات سے زائد کام۔ پوتا۔ نِجَ النَّوَافِلِ کہا جاتا ہے "هُوَ كَثِيرُ النَّوَافِلِ" وہ بہت بخشش اور عطا یا والا ہے۔

النَّفْلُ: قمری مینے کی چوٹی پانچویں چھٹی راتیں۔

النُّوْفَلُ: برفائض۔ خوبصورت جوان۔ نِجَ نُوْفَلُونَ. النُّوْفَلُ: سمندر۔ عطیہ۔ زربجو۔

النُّوْفَلَةُ: نمک دان۔

النَّسْفُ: فضاء آسمانی۔ آسمان وزمین کا درمیان۔ دیوار کے بالائی اور زیریں حصے کے درمیان۔ کنوئیں کے کنارے سے تہ تک کا حصہ۔ پہاڑ کا دیوار کے مانند گوشہ۔

بیبابان نِجَ النَّسْفَانِ وَنَسْفَانِ الدَّارِ: گھر کے اطراف ونواحی..... وَالنَّسْفَانِ: دو پہاڑوں کے درمیان کا خلا۔ دُور۔

نَفَهُ (ف) نَفُوها الرَّجُلُ: کمزور دل۔ بزدل ہونا..... الْجَمَلُ: دشوار کے بعد مطیع ہونا۔

نَفَيْتُ (س) نَفَيْتُ نَفْسَهُ: بھگانا۔

نَفَسَهُ وَأَنَفَهُ النَّاقَةَ: اونٹنی کو تھکانا اور کہا جاتا ہے "أَنَفَهُ لَهُ مِنْ خَالِهِ" اس نے اُس کو تھوڑا مال دیا۔

اسْتَنَفَهُ الرَّجُلُ: آرام لینا۔

النَّسْفَةُ: تھکا ہوا نِجَ نَفَسَهُ (..... وَالنَّسْفَةُ)

کمزور دل۔ بزدل۔

جَمَلٌ مَنَفَةٌ: تھکا ہوا اونٹ۔

نَفَاهُ يَنْفُوهُ نَفْوًا عَتٍ: نَفَاهُ يَنْفِيهِ يَأِيءُ مِثْلُ: ہر چیز کا ردی حصہ۔

نَفَاؤَةُ الشَّيْءِ وَنَفْوُهُ: ہر چیز کا ردی حصہ۔ چیز کا بقیہ۔ النَفْوَةُ: جلا وطنی۔

نَفَى يَنْفِي نَفْيًا الشَّيْءُ: انکار کرنا۔ نَفَاهُ عَنَهُ: علیحدہ کرنا۔ ہٹانا۔ نَفَى الرَّجُلُ: قید خانہ میں قید کرنا..... الرَّجُلُ مِنَ بَلَدِهِ: جلا وطن کرنا..... السَّيْلُ الْعَفَاءُ: سیلاب کا گورا کرکٹ بہا کر لانا..... الشَّحَابَةُ مَاءٌ: ہا: بادل کا پانی برساتا۔

"نَفْسِي يَنْفِي نَفْيًا وَنَفْيَانَا الضَّرْبُ فِي الدَّرَاهِمِ" صرف کا درہموں کو پرکھنے کے لئے بھیرنا۔ نَفَيْتُ الرَّيْحُ التُّرَابُ: ہوا کا مٹی کو اڑانا۔

نَفْسِي يَنْفِي نَفْيًا وَانْتَفَى عَنَهُ: دور ہونا..... الشَّعْرُ: بال گرنا و انتَفَى الشَّيْءُ: نابود ہونا۔ انتَفَى مِنَ وَبَلَدِهِ: بچہ کا انکار کرنا۔ انتَفَى فَلَانٌ مِنْ فَلَانٍ: کراہت کے ساتھ اعراض کرنا۔ وَنَفَاهُ فَانْتَفَى: اس نے اسے ہٹا دیا وہ ہٹ گیا۔

نَفَاهُ: اُثِي کرنے میں مبالغہ کرنا۔

نَافَاةٌ مَنَافَاةٌ: ایک دوسرے کو ہٹانا اور کہا جاتا ہے "هَذَا يَسَافِي ذَاكَ" یعنی یہ اس کے منافی و مخالف ہے۔

تَنَافَى تَنَافَى الرَّجَالُ: ایک دوسرے کو دفع کرنا۔ ایک دوسرے کے مخالف ہونا۔

تَنَافَتِ الْأَشْيَاءُ: مخالف ہونا۔ متباہین ہونا۔

نَفَاءُ الشَّيْءِ وَتَنَافَتْهُ وَنَفَيْتُهُ وَنَفَايَتُهُ وَنَفَايَتُهُ وَنَفَيْتُهُ: چیز کا وہ حصہ جو ردی ہونے کی وجہ سے دور کر دیا جائے۔ چیز کا بقیہ۔

النَّفْيَةُ نَفْسِي: کا اسم مرثیہ۔ گھوڑے کے پتوں کا دسترخوان جس پر گوشت پھیلا یا جائے۔ نِجَ نَفْيَاتٍ.

النَّفْيَانِ: مضم۔ درختوں کی جڑ میں ہوا سے جمع شدہ مٹی۔ لشکر کا بڑا حصہ جو ایک طرف کو

ہو جائے۔

النَّفَايُ: فا۔ دھکارا ہوا۔ دور کیا ہوا۔

النَّفْيُ: نابود کیا ہوا جھاگ جس کو ہانڈی چھینکتی ہے۔ چکی سے نکلا ہوا آٹا۔ گھوڑوں کے سم سے بکھری ہوئی مٹی، ٹکڑی وغیرہ۔ درختوں کی جڑ میں ہوا سے جمع شدہ مٹی۔ لشکر کا بڑا حصہ جو ایک طرف کو ہو جائے۔ ڈھال جو گھوڑے کے پتوں سے بنائی گئی ہو۔ کہا جاتا ہے "هَذَا اِنَّ نَفْيِي" یعنی اس کے باپ نے بیٹا ہونے سے انکار سے کر دیا ہے۔

النَّفْيَةُ: النَّفْيُ: کا مؤنث۔ گھوڑے کے پتوں کا دسترخوان جس پر گوشت یا پیڑ دھوپ میں خشک کیا جائے یا ہوا میں پھیلا یا جائے۔

النَّفْيُ: دور کیا ہوا۔ ہٹا یا ہوا دھکارا ہوا..... فِي الْكَلَامِ: اثبات کے خلاف۔

النَّفْيُ: جلا وطنی کی جگہ۔ نِجَ مَنَافٍ.

نَفَى (ض) نَفَيْتُهُ الضَّفْدُ: مینڈک کا ٹرانا (یہ لفظ مرغی، چکوز، بچھو، شتر مرغ اور بلی وغیرہ کے لئے بھی مستعمل ہے) اور کہا جاتا ہے "نَفَيْتُ ضَفَادِعَ بَطْنِهِ" یعنی وہ بھوکا ہوا۔

انْفَى: ٹرانے والا ہونا۔

النَّفَاقُ: اسم مبالغہ۔ مینڈک۔

النَّفَاقَةُ: النَّفَاقُ: کا مؤنث۔ مینڈکی۔

النَّفِيقُ: زشر مرغ النَّفِيقَاتُ: چھوٹے آبی جانور جن کے جسم پر باریک بال ہوتے ہیں۔ ٹھہرے پانی یا جاری پانی میں رہتے ہیں۔

النَّفُوقُ: چلانے والا۔ کہا جاتا ہے "ضَفْدُ نَفُوقِي" ج نَفُوقِي.

نَقَبَ (ن) نَقَبَا الْحَائِطَ: دیوار میں سوراخ کرنا..... النُّحْفُ: موزے میں بیوند لگانا

..... فَلَانٌ فِي الْأَرْضِ: جانا..... عَنِ الْأَخْبَارِ: گھوڑے کی گردنا خیر دینا.....

النُّوْبُ: بغیر نیک کے پانچواں ہونا۔

النُّفْرَسُ: گھوڑے کا دوڑنے میں تگلیں اکٹھی کرنا اور کہا جاتا ہے "نَقَبَتِ النُّجْبَةُ

فُلَانًا" قال کو تکلیف پہنچتی۔

نَقَب (س) نَقَبَا النُّحْفَ الْمَلْبُوسُ: پہنے ہوئے موزے کا پھٹا ہوا ہونا.....
 البَعِيرُ: اونٹ کا گھسے ہوئے کھروالا ہونا.....
 الرَّجُلُ: پہاڑی راستوں میں چلنا.....
 فِي الْبِلَادِ: سیر کرنا۔ مگلوں میں جانا۔
 نَقَب (ن) نَقَابَةٌ وَنَقَب (س) نَقَبَا وَنَقَب (ك) نَقَابَةٌ عَلَى الْقَوْمِ: سردار قوم ہونا (نَقَابَةٌ وَنَقَابَةٌ) یا تو مصدر ہیں اور یا نَقَابَةٌ بِالْكَسْرِ اسم ہے اور نَقَابَةٌ بِالْفَتْحِ مصدر ہے)
 نَقَب فِي الْأَرْضِ: بھاگتے ہوئے ملک میں گھسنا.....
 عَنِ الشَّيْءِ: خوب اچھی طرح کھود کر دیکرنا۔
 نَقَابَةٌ وَنَقَابَةٌ: مناقب پر فخر کرنا۔ نَقَابَةٌ وَنَقَابَةٌ: رودرو ملنا یا بغیر وعدے کے ملنا اور کہا جاتا ہے "وَرَدَّتْ الْمَاءَ نَقَابًا" میں پانی پر بغیر تلاش کے پہنچ گیا۔
 أَنْقَبَ فِي الْأَرْضِ: ملک میں چلنا البَعِيرُ: گھسے ہوئے کھروالا ہونا.....
 الرَّجُلُ: قوم کا سردار بننا.....
 فَلَانٌ: گھسے ہوئے کھرے والے اونٹ کا مالک ہونا۔
 تَنْقَبَ عَنِ الشَّيْءِ: تفتیش میں مبالغہ کرنا۔
 تَنْقَبَتْ وَانْقَبَتِ الْمَرْأَةُ: عورت کا نقاب ڈالنا۔
 النَّقَبُ: مصل۔ سوراخ۔ پہلو کا زخم.....
 وَالنَّقَبُ: پہاڑی راستہ۔ نقاب و انقباب و نقب العین: موتیا بند کا علاج۔
 النَّقْبُ وَالنَّقَبُ وَالنَّقَبُ: کھجلی۔
 الْبَيْقَبَةُ: نقاب ڈالنے کی بیبت۔ کہا جاتا ہے "إِسْرَافَةُ حَسَنَةُ الْبَيْقَبَةِ" عمدہ طریقے سے نقاب ڈالنے والی عورت۔ نیز کہا جاتا ہے "إِنَّ عَلَيْهِ نَقَبَةً مِنْ كَذَا" اس کے اوپر یقیناً فلاں چیز کا اثر ہے۔
 النَّقْبَةُ: ابتدائی خارش۔ زنگ۔ رنگ۔ چہرہ۔ سوراخ۔ ایک قسم کا کپڑا جو پانچامہ کی مانند باندھا جاتا ہے۔ ج نقب۔
 الْانْقَابُ: کان (جمع ہے اس کا واحد نہیں)

النَّقَابُ: مصل۔ بڑا عالم۔ عورت کے منہ ڈھانکنے کا کپڑا۔ سخت زمین کا راستہ۔ پیٹ اور "فَرَّخَانَ فِي نَقَابٍ" ضرب المثل ہے ان دو شخصوں کے حق میں بولا جاتا ہے جو مشکل و شبابہت میں مشابہ ہوں اور کہا جاتا ہے "الْقَيْبَةُ نَقَابًا" یعنی میں اس سے رودرو ملا یا بغیر وعدہ کے ملا "ووردت النساء نَقَابًا" میں پانی پر اچانک بغیر تلاش کے پہنچ گیا۔
 النَّقَابُ: فال۔ ایک بیماری کا نام جو دیر تک سونے سے پیدا ہوتی ہے اور یا اس زخم کو کہتے ہیں جو پہلو میں ہوتا ہے اور اس کا منہ جوف کی جانب اندر کو ہوتا ہے۔
 النَّاقِبَةُ: الناقب: کاموٹ۔ مذکورہ بالا زخم۔
 النَّقَابُ: کاموں میں گھسنے والا۔ کاموں کو بہت دریافت کرنے والا۔
 النَّقِيبُ: قوم کا گواہ۔ قوم کا ضامن۔ قوم کا چودھری و سردار۔ نَقِيبُ الْأَشْرَافِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ: لوگوں کے احوال کی تفتیش کرنے والا۔ ج نقباء النقب: ہائری۔ ترازو کی زبان۔ چھدا ہوا۔ تَحْلُبُ نَقِيبُ: کتا جس کے گلے میں سوراخ کر دیا گیا ہوتا کہ اس کی آواز پست ہو جائے اور ایسا بخیل آدمی کرتا ہے تاکہ کتے کی آواز سن کر مہمان نہ آجائیں اور کھانا دینا پڑے۔
 النَّقِيبَةُ: مؤنث النقب: نفس۔ عقل۔ طبیعت۔ مشورہ۔ رائے کا نفاذ۔ کہا جاتا ہے فَلَانٌ مَيْسُونُ النَّقِيبَةِ" فلاں پاک نفس ہے۔
 الْمَنْقَبُ: جانور کے پیٹ میں سوراخ کرنے کی جگہ۔
 الْمَنْقَبُ: پہاڑی راستہ۔ ج مناقب۔
 الْمَنْقَبُ: پہاڑی راستہ۔ بہت بحث و تحقیقات کرنے والا عالم۔ (.....) وَالْمَنْقَبَةُ) نثر جس سے جانور کی ناف میں سوراخ کیا جائے۔
 الْمَنْقَبَةُ: پہاڑی راستہ۔ دو مکانوں کے

درمیان تک راستہ۔ دیوار۔ عمدہ فعل۔ فخر۔ ج مناقب. مناقب الإنسان: عمدہ خصائل اور شریف اخلاق۔
 النَّقَابَةُ: محنت کشوں کی پارٹی اپنے حقوق مشرکین کے دفاع کے لئے۔
 نَقَبَتْ (ن) نَقَبَا الْعَظْمَ: ہڈی سے گودا نکالنا۔
 نَقَبَتْ (ن) نَقَبَا وَانْقَبَتِ الْعَظْمَ: ہڈی سے گودا نکالنا.....
 الشَّيْءُ الْمَذْفُونُ: کھود کر نکالنا۔ نَقَبَتْ الرَّجُلُ فِي الْأَمْرِ او الشَّيْءِ: دوڑنا.....
 الْحَدِيثُ: بات میں گڑبڑ کرنا.....
 فَلَانًا بِالْكَلَامِ: بات سے تکلیف پہنچانا.....
 الْأَرْضُ بَسِيحَةٌ: کدال سے کھودنا.....
 عَنِ الشَّيْءِ: کھود کر دیکرنا۔
 نَقَبَتْ الرَّجُلُ: دوڑنا۔
 تَنْقَبَتْ: اپنی طرف مائل کرنا۔ مہربان بنانا۔
 تَنْقَبَتْ ضَيْعَةً: جائیداد کی دیکھ بھال کرنا۔
 نَقَابَتْ: بچو۔
 النَّقَبُ: بچو۔ چغل خوری۔
 نَقَّضَ نَقَّضَةً الشَّيْخُ: بوڑھے آدمی کا خاک اڑاتے ہوئے چلنا۔
 نَقَّحَ (ف) نَقَّحَا وَنَقَّحَ الْعَظْمَ: ہڈی سے گودا نکالنا.....
 الْجَذَعُ: تیر کی گرہں چھیل کر صاف کرنا.....
 الشَّيْءُ: چھیلنا اور خالص کوردی سے جدا کرنا۔
 نَقَّحَ وَانْقَحَ الْكَلَامَ: اصلاح کرنا۔ درست کرنا۔ نَقَّحَتِ الْمِسُونُ الرَّجُلُ: کمزور کر دینا.....
 وَانْقَحَ الرَّجُلُ: قحط یا فقر کی وجہ سے تلوار کی زینت اتار لینا۔
 تَنْقَحَ شَحْمَةً: چربی کم ہونا۔
 انْقَحَ الْعَظْمَ: ہڈی سے گودا نکالنا۔
 انْقَحَ: مصل۔ گرمی کے زمانے کا سفید پادل۔
 النَّقْحُ: خالص ریت۔
 التَّنْقِيحُ: مصل۔ ظہور۔ معنی کے ساتھ الفاظ کا اختصار۔
 نَقَّحَهُ (ف) نَقَّحْنَا: مارنا۔ نَقَّحَ

دماغہ: توڑنا۔

إِنْتَقِخَ الْمُخَّ مِنَ الْعَظْمِ: ہڈی سے گودا نکالنا۔

النَّقَاخُ: مُضْطَّاصِفٌ پائی۔ نیند۔ آرام۔ امن۔ ولفَاخٌ كَلْبٌ شَيْءٌ: خاص۔ کہا جاتا ہے "هَذَا نَقَاخُ الْعَرَبِيَّةِ" یہ خاص عربیت ہے۔

نَقَدَ (ن) نَقَدًا وَتَقَادًا الدَّرَاهِمَ وَغَيْرَهَا: پرکھنا..... الکلام: کلام کے عیوب و محاسن کو ظاہر کرنا۔ نَقَدَ فَلَانًا وَفُلَانًا النَّمَنَ: نقد ادا کرنا۔ نَقَدَهُ دِيْنَهُمَا: دینا..... الطَّائِرُ الْمَفْخُجُ او الْحَبُّ: چوچ مارنا..... الرَّجُلُ الشَّيْءُ وَالشَّيْءُ يَنْظُرُهُ: چکے چکے نظر ڈالنا۔ چکے چکے گھورتا..... نَقَدْتُهُ الْحَيَّةَ: سانپ کا ڈسنا۔

نَقَدَ (س) نَقَدًا الصَّرْسُ او الْقُرْنَ: دانت یا سینک کا ٹوٹنا۔ کرم خوردہ ہونا۔ صفت نقد..... الحَافِرُ: کھر کا چمیل جانا..... الجَذَعُ: تہہ کا کپڑوں کے کھانے سے کھوکھلا ہونا۔

انْقَدَ الشَّجَرُ: درخت میں سے ہوتا۔ نَاقِدَةٌ مُنَاقِدَةٌ: کسی معاملہ میں جھگڑا کرنا۔ تَنَقَّدَ الدَّرَاهِمَ وَغَيْرَهَا: دراہم وغیرہ پرکھنا۔ تَنَاقَّدَ الدَّرَاهِمَ: دراہم پرکھنا اور کھونا علیحدہ کرنا۔

انْتَقَدَ الدَّرَاهِمَ: نقد وصول کرنا۔ کھونا علیحدہ کرنا..... الشَّعْرُ عَلَيَّ قَائِلِيهِ: شعر کے عیوب ظاہر کرنا..... الکلام: کلام کی تنقید کرنا۔ عیوب و محاسن ظاہر کرنا..... الاَرْضَةُ الْجَذَعُ: دویک کا کھوکھلا کرنا۔ انْتَقَدَ الْوَلَدُ: لڑکے کا جوان ہونا۔

النَّقْدُ: مص - قیمت جو فوراً ادا کی جائے۔ درہم۔ ج نفوذ کہا جاتا ہے "دِرْهَمٌ نَقْدٌ" عمدہ کھر درہم۔ النَّقْدَانُ چاندی و سونا۔ النَّقْدُ وَالنَّقْدُ: کم گوشت والا۔ دیر سے جوان ہونے والا۔

النَّقْدُ: مص - بھٹیروں کی ایک قسم جن کی ٹانگیں چھوٹی اور چہرہ بد شکل ہوتا ہے۔ واحد نَقْدَةٌ: مذکر و مؤنث دونوں کے لئے ج نَقَادٌ وَنَقَادَةٌ: النَقْدُ: کہیں لوگ۔ النَقْدُ مِنَ الصَّبِيَانِ: حقیر و ذلیل بچہ کہ جس پر جوانی کا اثر ظاہر نہ ہو۔ النَّقْدُ وَالنَّقْدُ: ایک قسم کا درخت واحد نَقْدَةٌ وَنَقْدَةٌ. النَّاقِدُ: فاج نَقْدَةٌ وَنَقَادٌ.

انْقَدَ وَالانْتَقَدَ: سببی اور امثال عرب سے ہے "بَاتَ بَلْبِلٌ اِنْقَدَ" یعنی وہ سویا نہیں اس لئے کہ سببی پوری رات نہیں سوتا۔ الانْقَدُ وَالانْتَقَدَانُ: کچھوا۔

النَّقَادُ: دراہم وغیرہ کا پرکھنے والا۔ زاجسی النقد (چھوٹی ٹانگ والی بھٹیڑ کا چرواہا) مِنْقَادُ الطَّائِرِ: پرندے کی چوچ ج منقید. الْمُتَنَقِّدُ: مصدر یعنی بحثی انتقاد.

نَقَدَ (ن) نَقْدًا وَنَقْدًا وَانْقَدَ فَلَانًا مِنْ كَذَا: نجات دینا۔ چھڑانا۔ تَنَقَّدَهُ وَاسْتَنْقَدَهُ: مِنْ كَذَا: نجات دینا۔ چھڑانا۔

نَقَدَ (س) نَقْدًا: نجات پانا۔ النَقْدُ: مص - سلامتی۔ بھٹلنے والے کی سلامتی کی دعا کے لئے کہا جاتا ہے "انْقَدَ الْكَ" اور اس کی اصل "انْقَدَكَ اللَّهُ نَقْدًا" ہے یعنی اللہ تمہیں محفوظ رکھے۔

النَّقْدُ: مص - چھڑایا ہوا اور کہا جاتا ہے "مَثَلُهُ شَقْدٌ وَلَا نَقْدٌ" یعنی اس کے پاس کچھ نہیں۔ النَقِيذُ: دشمن کے ہاتھ سے چھڑایا ہوا۔ النَقِيذَةُ: دشمن کے ہاتھ سے چھڑایا ہوا۔ جیسے گھوڑا زہر وغیرہ۔ ج نَقَائِدُ اور کہا جاتا ہے "هُوَ نَقِيذَةُ بُوْسٍ" وہ سختی سے چھڑایا ہوا ہے۔

الانْقَدُ: سببی۔ نَقْرَةٌ (ن) نَقْرًا: مارنا۔ نَقَرَ الْعُوْدُ او السُّدُفُ: بربط یا دلف بجانا فلانسا: عیب لگانا..... الشَّيْءُ: چوچ سے سوراخ کرنا..... الطَّائِرُ النَّيْضَةُ عَنِ الْفُرْخِ: پرندہ کا بچہ

نکالنے کے لئے اٹنے سے میں سوراخ کرنا۔ نَقَرَ فِي الْحَجَرِ: چھڑ پر لکھنا..... فی النَّاقُورِ: بگل میں پھونکنا..... الطَّائِرُ الْحَبُّ: پرندہ کا ادھر ادھر سے دانہ چکنا..... الحجر او الخشب: بکڑی یا پتھر کھودنا۔ نَقَرَتِ السَّخِيلُ بِخَوِّهَا: گھوڑوں کا کھروں سے کھودنا۔ نَقَرَ عَنِ الْأَمْرِ: چھان بین کرنا۔ نَقَرَ فَلَانٌ: بچکی بجانا۔ زبان کو تالو سے لگا کر آواز نکالنا۔ نَقَرْتُ بِالرَّجُلِ: قوم میں سے علیحدہ بلانا نَقَرَ السَّهْمُ الْهَدَفَ: تیر کا نشانہ پر لگانا اور پار نہ ہونا۔ اور کہا جاتا ہے "زَمَسِي الرَّاهِي الْغُرُضَ فَنَقَرَهُ" تیر بھینسنے والے نے نشانہ پر تیر لگایا۔

نَقَرَ (س) نَقْرًا عَلَيَّ فَلَانٌ: غضبناک ہونا۔ نَقَرَتِ الشَّلَةُ: نقرہ کی بیماری والی ہونا۔ نَقَرَ فَلَانٌ: فقیر ہونا۔

نَقَرَ الطَّائِرُ فِي الْمَوْضِعِ: اٹنے سے دینے کے لئے نرم کرنا..... فَلَانٌ بِاسْمِ فَلَانٍ: جماعت کے درمیان نام لے کر پکارنا..... الشَّيْءُ وَعَنِ الشَّيْءِ: چھان بین کرنا..... عَلَيَّ فَلَانٌ: عیب لگانا اور بُرِي معلوم ہونے والی باتوں کا ذکر کرنا۔ الطَّائِرُ الْحَبُّ: پرندہ کا ادھر ادھر سے دانہ چکنا (تشہید مبالغہ کے لئے ہے)

نَاقِرَةٌ مُنَاقِرَةٌ وَنَقَارًا: گفٹلو میں لوٹ پھیر کرنا۔ جھگڑا کرنا۔ کہا جاتا ہے "بَيْنَهُمْ مُنَاقِرَةٌ" ان کے درمیان جھگڑا ہے۔

انْقَرَ عَنْهُ: رکنا۔ کہا جاتا ہے "ضَرْبُهُ فَمَا انْقَرَ عَنْهُ حَتَّى قَتَلَهُ" اس نے اسے مارا اور نہیں رکایا تک کہ قتل کر دیا۔ وانْقَرَ الرَّجُلُ: جھگڑا کر آواز نکالنا۔ بچکی بجانا۔

تَنَقَّرَ الشَّيْءُ: چھان بین کرنا..... عَلَيَّ الْاَهْلُ وَالصَّالُ: بددعا کرنا اور اَزْاحِصِي اللَّهُ مِنْكُمْ وَذَهَبَ اللَّهُ بِمَالِكُمْ (اللہ تعالیٰ مجھ کو تم سے راحت دیں اور تمہارے مال کو ضائع کر دیں) کہنا۔ انْتَقَرَهُ: پسند کرنا۔ انْتَقَرَ الشَّيْءُ: چھان بین

کرنا۔ اِنْفَرَةٌ وَاِنْفَرْتُ بِهِ: قوم کے درمیان سے علیحدہ بلانا..... الْقَوْمُ وَالْقَوْمُ: خاص خاص لوگوں کو بلانا۔ اِنْفَقِرَتِ الْخَيْلُ بِحَوَافِرِهَا نَفْرًا: گھروں سے کودنا۔ اِنْفَقِرَتِ السَّيُولُ نَفْرًا: سیلاب کا گڑھے کر دینا۔ اِنْفَقِرَ الشَّيْءُ: لکنا۔ النَّافِرُ: فائدہ نشانہ پر لگنے والا تیر۔ ج نوافر۔ السَّافِرَةُ النَّافِرُ: کاموث۔ مصیبت۔ درست دلیل۔ ج نوافر اور کہا جاتا ہے "أَتَسْتَسِي عَنْهُ نَوَافِرٌ" اس سے مجھے تکلیف دہ باتیں پہنچیں۔ "وَأَخْطَأَتْ نَوَافِرُهُ" یعنی وہ راہ راست پر مستقیم نہیں رہا۔ "وَبَيَّنْتَهُمْ سَافِرَةً وَنَفْرَةً" ان کے درمیان جھگڑا ہے۔ النَّافِرُ: شور یا بھل۔ دل۔ ج نوافر۔ النَّفَارَةُ: پتھر پر لکھنے سے جو پانی رہ جائے۔ چونچ بھر۔ اور کہا جاتا ہے "مَاتَ رُكَّ عِنْدِي نَفَارَةٌ إِلَّا اِنْفَقَرَتْهَا" میرے پاس جو کچھ تھا اس نے سب کچھ لکھ لیا۔ النَّفْرُ: مہم۔ چنگلی کی آواز۔ پتھر کی کتابت۔ النَّفْرُ: کھجور کی گھٹلی کا گڑھا۔ النَّفْرُ: غضبناک۔ کہا جاتا ہے "هُوَ نَفْرٌ عَلَيَّ" وہ تمہارے اوپر غضبناک ہے۔ نَفْرُهُ: کی بیماری میں مبتلا اور کہا جاتا ہے "مَا لَهُ بِمَوْضِعٍ كَذَا نَفْرٌ" اس کے لئے فلاں جگہ میں پانی یا کنواں نہیں ہے۔ النَّفْرُ: مہم۔ کہا جاتا ہے "أَعْوَذُ بِاللَّهِ مِنَ الْعَفْرِ وَالنَّفْرِ" میں تجھ پر اور ضیاع مال سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ النَّفْرِيُّ: عیب اور یہ نَفْرٌ: فعل کا اسم ہے اور کہا جاتا ہے "دَعَوْنَهُمُ النَّفْرِيُّ" میں نے ان لوگوں کو خاص طور سے بلایا۔ اور اس کے مقابلے میں "الْبَهْلِيُّ" ہے جس کے معنی دعوت عامہ کے ہیں "بَسَاتِ النَّفْرِيُّ" وہ عورتیں جو ہر اس شخص کی عیب جوئی کریں جو ان کے سامنے سے گزرے۔ النَّفْرَةُ نَفْرٌ: کا اسم مرہ۔ کہا جاتا ہے "مَا

أَثَابَهُ نَفْرَةٌ" اس نے اُس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیا "وَمَا أَغْنَىٰ عَنِّي نَفْرَةٌ" اس نے مجھ کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیا اور یہ ہمیشہ نفی کے ساتھ مستعمل ہوتا ہے۔ النَّفْرَةُ: گفتگو میں لوٹ بھیر اور جھگڑا۔ النَّفْرَةُ: چھوٹا گول گڑھا۔ چاندی سونے کا پھلایا ہوا ٹکڑا۔ آکھ کا گڑھا۔ سرین کے وسط کا گڑھا۔ گردن کے پھیلنے حصہ کا گڑھا۔ پرندہ کے اٹنے دینے کی جگہ۔ کھجور کی گھٹلی کا گڑھا۔ ج نَفْرٌ وَنِفَارٌ۔ النَّفْرَةُ النَّفْرُ: کاموث۔ پست زمین میں بلند جگہ۔ النَّفْرَةُ: ایک قسم کی بیماری ہے جو بکری اور گایوں کی ٹانگ میں لاحق ہوتی ہے۔ النَّفَارُ: اسم مبالغہ۔ امور اور خبروں کی چھان بین کرنے والا۔ پتھر یا لکڑی میں کھدائی کا کام کرنے والا۔ رکاب یا لگام میں نقش و نگار کرنے والا۔ اس کے پیش کو النَّفَارَةُ کہتے ہیں۔ النَّفَارُ: ایک چھوٹا سا پرندہ جو درختوں پر چڑھتا ہے اور سوراخ کر کے کیڑے نکالتا ہے۔ النَّفَارَةُ النَّفَارُ: کاموث۔ النَّفِيرُ: آواز۔ کھجور کی گھٹلی کا گڑھا۔ کھدا ہوا پتھر یا لکڑی۔ مہم جس کو کھود کر بیڑھی جیسی بناتے ہیں۔ لکڑی کی جڑ جس کو کھود کر اس میں نیمب بناتے ہیں اور اس کی نیمب تیز و تند ہوتی ہے۔ النَّفِيرُ: اصلیت کہا جاتا ہے "فَلَانٌ كَسِرْبُمُ النَّفِيرِ" فلاں شریف الاصل ہے۔ بہت محتاج ایک کالے رنگ کی کبھی۔ ج انْفِرَةُ۔ النَّفِيرَةُ: چھوٹی کشتی۔ الاِنْفِيرُ: کھجور کی گھٹلی کا گڑھا۔ النَّفِيرُ: مہم۔ سیٹی بجانے کے مشابہ آواز۔ الْمُنْفَرُ: کدال۔ جیسی۔ ج مَنَافِرُ۔ الْمُنْفَرُ وَالْمُنْفَرُ: شراب بنانے کے لئے لکڑی کا کھدا ہوا برتن۔ ج مَنَافِرُ (خلاف

قیاس) تنگ منہ کا کنواں یا بہت پانی والا گہرا کنواں حوض۔ الْمُنْفَرُ: بہت کھٹا دودھ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مُنْفَرُ الْعَيْنِ وَمُنْفَرٌهَا" وہ دھنی ہوئی آنکھ والا ہے۔ الْمُنْفَارُ: کدال۔ چونچ۔ الْمُنْفَارُ: چرمی موزہ کی نوک مَنْفَارِ الدَّجَاجَةِ وَمُنْفَارُ الْغُرَابِ: دوستاروں کے نام۔ وَمُنْفَارُ الْغُرَابِ: موٹہ ہے کی ایک ہڈی جس کو أَخْرَمَ بھی کہتے ہیں۔ نَفْرٌ نَفْرَةٌ فِي الْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ کہا جاتا ہے "فَالنَّكَ مُنْفَرٌ" کوئی تمہارے لئے ٹھہرانے والا نہیں۔ النَّفْرُسُ: حیر کے جوڑوں کا آماں۔ ہلاکت۔ بڑی مصیبت۔ ماہر رہنما۔ طیب حاذق۔ گلاب کے پھول جیسی ایک چیز جس کو عورتیں بنا کر سر میں لگاتی ہیں ج نَفَارِسُ۔ النَّفْرُسُ: ماہر رہنما۔ طیب حاذق۔ نَفْرٌ (نض) نَفْرًا وَنَفْرًا وَأَنَا وَنَفَارًا وَالنَّفْرِيُّ: ہرن کا کودنا۔ چھلانگ مارنا۔ صفت نَافِرٌ نَفْرَةً عَنْهُمْ: دُخ کرنا۔ ہٹانا۔ نَفْرَتِ الصَّبِيِّ أُمَّهُ: بچے کا اچھلنا۔ نَفْرٌ فَلَانًا: کودانا۔ اِنْفَرَّ الرَّجُلُ: ہمیشہ صاف اور سٹھا پانی پینا۔ رومی مال جمع کرنا۔ نَفَارِی کی بیماری والے جانوروں والا ہونا۔ اِنْفَرَّ عَدُوُّهُ: دشمن کو فوراً قتل کروینا..... عَنِ الشَّيْءِ: رُکنا۔ باز رہنا۔ اِنْفَقِرَتِ الشَّاةُ نَفَارًا: کی بیماری والی ہونا۔ اِنْفَقَرَ فَلَانٌ لِفَلَانٍ مِنْ عَالِهِ: رومی مال دینا۔ اِنْفَقَرَ لِفَلَانٍ شَرًّا لِأَبِي: کسی کے لئے بُرے اونٹ پسند کرنا۔ کہا جاتا ہے عَطَاءٌ نَافِرٌ وَذُو نَافِرٍ غَمِيًّا عَطِيًّا۔ النَّافِرَةُ النَّافِرُ: کاموث۔ ج نوافر۔ نوافر الدَّابَّةِ: چوپایہ کی ٹانگیں۔ النَّفَارُ بِالضَّمِّ: طاعون کے مشابہ جانوروں کا ایک مرض۔ النَّفْرُ: حسیس مال۔ گھٹیا قسم کے لوگ۔

النَّقْر: نقواں۔

النَّقْر: لقب۔

النَّقْر: لقب، گھنیا مال رُذیل اور ادنیٰ درجہ کے لوگ واحد نَقْر۔

البِقْر: صاف بیٹھاپانی۔

النَّقْز والنَّقْزَان: ایک قسم کا پرندہ۔ چڑیوں کے بیچ۔ ج نَقَائِزُ۔

النَّقْزُور: نَقْز: کی بیماری والا۔ مَوْنُث مَنقُورَةٌ۔

نَقْس (ن) نَقْسا. النَّاقُوسُ بِالسَّحَابَةِ: بکڑی سے ناقوس بجاتا۔

النَّاقُوسُ: ناقوس بجاتا۔ المَرْوَاتُ: جماع کرتا۔

نَقْس (ن) نَقُوسًا. الشَّرَابُ: کھتا ہوتا۔

بَيْنَ القَوْمِ: نساؤ الننا۔

نَقْس (س) نَقْسا: عیب لگانا۔ تمسخر کرنا۔

نَقَسَتْ نَفْسَهُ: تمسخر کرنا۔

نَقْس فَلَانًا: لقب دینا۔ الذَّوَابُ: دیوات میں روشنائی ڈالنا۔ نَقَسَهُمْ بِنَاقُوسِهِ: ناقوس بجا کر لوگوں کو بلانا۔

نَاقِسَةٌ: عیب لگانا۔ کہا جاتا ہے "بَيْنَهُمَا مَنَاقِسَةٌ وَمَنَاقِسَةٌ" ان کے درمیان مفاخرت اور عیب گیری ہے۔

إِنقَسَ: ناقوس بجاتا۔

النَّاقِسُ: فنا۔ کھتا۔ کہا جاتا ہے "لَيْسَ نَاقِسٌ أَوْ شَرَابٌ نَاقِسٌ" کھتا دودھ یا کھٹی شراب۔

النَّقْسُ: ایک قسم کا ناقوس۔ کھلی۔ ج نَقْسُ رَجُلٍ نَقْسٌ: لوگوں کی عیب گیری کرنے والا اور لقب رکھنے والا مرد۔

النَّقْسُ: روشنائی۔ ج انقاس و انقاس۔

الانقاس: باندی بچہ۔ کھلی والا۔

النَّقُوسُ: ایک قسم کی نباتات۔

النَّاقُوسُ: بکڑی یا لوبے کا بڑا ٹکڑا جس کو چھوٹے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے سے بجاتے ہیں اور کبھی گھنٹہ کے لئے ناقوس کا کلمہ استعمال کرتے ہیں۔

البِقَاسَةُ: لقب دینا۔

نَقَش (ن) نَقْشا الشئ: مختلف رنگوں سے نقش و نگار کرنا اور مزین کرنا۔

العَدْقُ: کھجور کے خوشہ کو پکانے کے لئے کانٹوں سے مارنا۔ الشَّوْكَةُ مِنَ رَجُلِهِ: بیز سے کانٹا نکالنا۔ مَرَضُ العَنَمِ: بکری کے باڑہ کو ٹکڑا کرنے وغیرہ سے پاک صاف کرنا۔ عَنِ الشئ: نہایت وضاحت کرنا۔ فَصَّ الخَاتَمَ: انگوٹھی کے گمبند پر نقش کرنا۔ الشَّعْرُ بِالمِنقَاشِ: بال کو موپنے سے اکھیڑنا۔

الرَّحَى: بچل کے دندانے بنانا۔

السَّجَارِيَّةُ: جماع کرنا اور کہا جاتا ہے "مَا نَقَشَ مِنْهُ شَيْئًا" اس نے اس میں سے کچھ نہیں پایا۔

نَقَشَ الشئ: مختلف رنگوں سے نقش و نگار کرنا۔

نَاقِسَةُ الحِسَابِ وَهِيَ الحِسَابُ: حساب کی تفصیل ختی سے لینا۔ نَاقِشُ فَلَانًا: بھگڑا کرنا۔

انقَشَ عَلَيَّ غَرِيمِهِ: مقروض سے پورا وصول کرنا۔ نقش کے کھانے پر مداومت کرنا۔ (دیکھئے لفظ نقش)

تَنقَشُ جَمِيعَ حَقَبِهِ مِنْ فَلَانٍ: سارا وصول کر لینا کچھ نہ چھوڑنا۔

انقَشَ الشَّوْكَةَ: کانٹا بیز سے نکالنا اور کبھی انقَاش: توبہ کے لئے بطور استعارہ لکے مستعمل ہوتا ہے۔ الشئ: نکالنا۔ مِنْ زَيْدٍ جَمِيعَ حَقَبِهِ: سارا حق وصول کر لینا کچھ نہ چھوڑنا۔ انقَشَ فَلَانًا: پسند کرنا۔ تم کہتے ہو "انقَشْتُكَ لِحَدَا" میں نے تم کو فلاں چیز کے لئے منتخب کیا اور انقَشَ لِنَفْسِهِ خَادِمًا او غیرہ: اس نے اپنے لئے خادم وغیرہ بنایا۔ انقَشَ فَلَانٌ: گمبند پر کندہ کرنے کا حکم دینا۔ عَلَيَّ فَضِهِ كَذَا: نقش کئے جانے کا حکم دینا۔

البِقَاشَةُ: نقش و نگار کا پیشہ۔

النَّقْشُ: مصص۔ زمین میں نشان۔ نقش و نگار ازرقم تصور و تیل بود۔ ج نَقْشُوشُ۔

النَّقْشُ: خشک کھجور جس کو توشدان میں رکھ کر پانی ڈالیں۔ کہا جاتا ہے "ذَامَ عَلَيَّ اَكْمَلِ النَّقْشِ" اس نے نقش کے کھانے پر مداومت کی۔

النَّقَاشُ: نقش و نگار کرنے والا۔

النَّقِيشُ: برتن میں متفرق سامان۔ نظیر۔ کہا جاتا ہے "مِثَالُهُ نَقِيشٌ" اس کی کوئی نظیر نہیں۔

المِنقَشُ والمِنقَاشُ: نقش و نگار کرنے کا آلہ۔ موچا۔ ج منقاش۔ ومنقاش کہا جاتا ہے "اسْتَحْرَجْتُ حَقَبِي بِالمِنقَاشِ" مجھے اپنے حق کے وصول میں ممکن لاحق ہوئی۔

المِنقَشُوشُ: مفتح۔ دینار۔ بچی کھجور جس کو بچنے کے لئے کانٹا ماریں۔

الشَّجَّةُ وَالْمَنقِشَةُ وَالْمَنقُوشَةُ: زخم جس سے ہڈیاں نکالی جائیں۔

نَقَص (ن) نَقْصًا وَتَنقَاصًا وَنَقْصَانًا الشئ: کم ہونا۔ گھٹنا۔ نَقْصَتْ الشئ: گھٹانا۔ نَقَصْتُ زَيْدًا حَقَّهُ: حق کم کر دینا گھٹانا۔

نَقَص (ك) نَقْصَةَ المَاءِ: پانی بیٹھاؤ خوشگوار ہونا۔

نَقَصَ الشئ وَانقَصَهُ: گھٹانا۔

انقَصَ الشئ: گھٹانا۔ الشئ: گھٹانا۔

الوَجُلُ: عیب جوئی کرنا۔ انقَصْتُهُ حَقَّهُ: حق کم کرنا۔

تَنقَصَ فَلَانًا: مذمت کرنا۔ نقص کی نسبت کرنا۔ الشئ: تھوڑا تھوڑا لینا۔

تَنقَصَ الشئ: آہستہ آہستہ گھٹانا۔

انقَصَ الشئ: قیمت گھٹانے کے لئے کہنا۔ تھوڑا پانا۔ الشئ: نقصان کی نسبت کرنا۔

النَّاقِصُ: فنا۔ درہم ناقص۔ کم وزن کا درہم ج ناقص۔

النَّقْصُ: نقصان کے مانند ہے مگر فرق یہ ہے کہ نقصان کا استعمال دین اور

<p>عقل میں نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے "ذخّل عَلَيْهِ نَقْضٌ فِي دِينِهِ وَعَقْلِهِ" اور "ذخّل عَلَيْهِ نَقْضَانٌ فِي دِينِهِ وَعَقْلِهِ" نہیں کہا جاتا۔ النَّقْضَانُ: مصل۔ گھٹی۔ کسی۔ کہا جاتا ہے "نَقْضَانُهُ كَذَا وَكَذَا" اس کا نقصان اتنا اور اتنا ہے۔ النَّقِيسُ: خوشبو اور میٹھا پانی۔ ہر عمدہ و خوشبودار چیز۔ النَّقِيضَةُ: عیب گیری۔ بری خصلت ج نَقَائِصُ۔ الْمُنَاقِضَةُ: تینڈر۔ الْمُنْقِضَةُ: کسی۔ نقصان۔ ج مناقص۔ نَقْضٌ (ن) نَقَضْنَا الْبِنَاءَ: عمارت ڈھانا الْعَظْمُ: ہڈی توڑنا الْحَبْلُ: رسی کھولنا الْعَهْدُ وَالْأَمْرُ: مضبوطی کے بعد خراب کرنا۔ اور کہا جاتا ہے "نَقَضَ فُلَانٌ وَتَرَةً" یعنی فلاں نے اپنا بدل لے لیا۔ نَقْضٌ (ن ض) نَقَضْنَا الْمَفْضُلَ أَوْ الْأَدِيمَ وَنَحْوَهُمَا: جوڑیا چمڑے کا تڑتڑ کرنا۔ نَاقِضٌ مُنَاقِضَةٌ وَنَاقِضًا قَوْلُهُ الثَّانِي قَوْلُهُ الْأَوَّلِ: مخالف ہونا۔ انْقَضَتِ الْعُقَابُ: عقاب کا آواز نکالنا۔ انْقَضَ أَصَابِعُهُ: انگلیاں چمچانا الْكُفَاةُ وَعَنِ الْكُفَاةِ: سانپ کی چھتری کو زمین سے نکالنا یا منعزلی بکری کو بلانا الْحَمْلُ الظَّهْرُ: بوجھل کرنا وَنَقَضَ الْحَكْمَ سَانِپ کی چھتری کا زمین کو پھاڑنا۔ وَنَقَضَ الْأَرْضُ: مٹی علیحدہ کر دینا۔ تَنْقَضُ الدَّمُ: خون ٹپکانا الْجُرُوحُ: زخم سے خون بہنا الْحَبْلُ: رسی کا کھل جانا الْبَيْتُ: تڑکنا۔ تَنْقَضَتْ عِظَامُهُ: ہڈیوں سے آواز نکالنا الْأَرْضُ عَنِ الْكُفَاةِ: زمین کا پھینا۔ تَنَاقُضُ الْبِنَاءِ أَوْ الْحَبْلِ: عمارت کا تڑکنا یا رسی کا کھلنا الْقَوْلَانِ: ایک دوسرے کے مخالف ہونا۔ تَنَاقُضًا الْبَيْعُ: بیع کو باہم</p>	<p>توڑنا۔ انْتَقَضَ الْبِنَاءُ: عمارت کا تڑکنا الْحَبْلُ: رسی کھلنا الْجُرُوحُ: زخم کا خراب ہونا الْأَمْرُ: بَعْدُ الْبِتَامِهِ: فساد ہونا۔ بگڑنا۔ انْتَقَضَتِ الطَّهَارَةُ: طہارت کا زائل ہونا۔ کہا جاتا ہے "انْتَقَضَ عَلَيْهِ الْبَلَدُ" یعنی شہر والوں نے بغاوت کی۔ النَّقَاظَةُ: عٹی ہوئی رسی کا جو حصہ کھول دیا جائے۔ النَّقْضُ: مصل۔ مفاصلتین کا ساتواں حرف حذف کرنا اور پانچویں کو ساکن کرنا۔ النَّقِضُ: عمارت۔ بلکہ۔ کثرت سرفے لآخر شدہ۔ خیمہ یا کھل جو اوجھڑ کر دوبارہ کا تا جائے۔ زمین کی باریک تہ جو سانپ کی چھتری سے پھٹ جائے۔ ج انْقِاضِ وَنُقُوضُ۔ النَّقْضُ: عمارت کا جو حصہ ٹوٹ جائے۔ ج انْقَاضِ وَنُقُوضُ۔ النَّقْضُ: کشتی کا ایک بیج۔ النَّقْضُ: خیمہ یا کھل جو اوجھڑ کر دوبارہ کا تا جائے۔ النَّقْضَةُ: نقض: کا اسم مرہ۔ النَّقْضَةُ: نقض: کا اسم نوع۔ کثرت سرفے لاخر شدہ۔ کہا جاتا ہے نَاقِضَةٌ بِنَقْضَةٍ ج انْقَاضِ۔ النَّقِيضُ: مخالف۔ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ هُوَ نَقِيضُكَ" فلاں تمہارا مخالف ہے۔ مَوْتٌ نَقِيضَةُ النُّبُوضِ مِنَ الْأَدَمِ وَالرُّوحُ وَالْوَتْرُ وَالْأَصَابِعُ وَالْأَضْلَاعُ وَالْمَفَاصِلُ وَنَحْوَهَا: برعکس۔ مخالف۔ آواز۔ النَّقِيضُ: چوڑے بچھو مینڈک، عقاب، شتر مرغ کی آواز۔ نَقِيضُ السَّقْفِ: چھت کی چوڑا ہٹ۔ نَقِيضُ كَهْلٍ شَيْءٍ: ہر چیز کا رفع۔ مثلاً جب ہم کہیں کہ "كَهْلُ الْإِنْسَانِ خَيَوَانٌ بِالضَّرْوَرَةِ" تو اس کی نقیض اِنَّهُ لَيْسَ مَكْذُوبٌ ہوگی۔ النَّقِيضَانِ: دو چیزیں جن کا اجتماع ایک ہی</p>	<p>جہت سے متنوع ہو جیسے ایجاب و سلب۔ النَّقِيضَةُ: پہاڑی راستہ۔ اسم سے مناقضة کا وَالنَّقِيضَةُ فِي الشَّعْرِ: نظم جو کسی نظم کے جواب میں ہو۔ کہا جاتا ہے "هَذِهِ الْقَصِيدَةُ نَقِيضَةُ قَصِيدَةِ فُلَانٍ" یہ قصیدہ فلاں کے قصیدہ کے جواب میں ہے اور اسی سے ہے نَقَائِضُ جَبْرِئِيلَ وَفِرْعَوْنَ۔ النَّقَائِضُ: مصل۔ باہم مخالف ہونا۔ کہا جاتا ہے "بُعِي كَلَامُهُ تَنَاقُضًا" یعنی اس کے کلام میں مخالف ہے۔ بعض کا بعض سے ابطال ہو جاتا ہے۔ نَقَطَ (ن) نَقَطْنَا الْحَرْفَ: حرف پر نقطہ لگانا۔ صفت فاعلی نَقَطَ اور صفت مفعولی مَنْقُوطٌ وَنَقَطَ بِهِ الزَّمَانُ: زمانہ کا موانق ہونا۔ وَنَقَطَ الْحَرْفَ: حرف پر نقطہ لگانا۔ نَقَطَ ثَوْبَهُ بِالْمِدَادِ أَوْ الزَّعْفَرَانِ: کپڑے کو روشنائی یا زعفران سے پولی دار بنانا۔ تَنَقَّطَ الْمَكَانُ: گھاس کے متفرق قطعے ہونا فُلَانٌ الْخَبِيرُ: آہستہ آہستہ لینا۔ تَنْقَطُ الْخَبِيرُ: آہستہ آہستہ میں نے روٹی کھائی۔ النَّقِيطُ: فَا غلام کا غلام۔ النَّقِيطَةُ: نقطہ: کا اسم مرہ۔ النَّقِيطَةُ: نقطہ: لعل اسٹاپ۔ ج نَقِيطَاتُ وَنَقِيطٌ کہا جاتا ہے "نَقِيطَاتُ أَوْ نَقِيطٌ مِنَ الْكَلَامِ" گھاس کے متفرق ٹکڑے۔ "وَمَا اخْتَلَفُوا فِي نَقِيطَةٍ" یعنی انہوں نے پوری طرح موافقت کی۔ ذرا بھی مخالفت نہ کی۔ نَقِيطَةُ الدَّيْرَةِ: دائرہ کا مرکز۔ النَّقِيطُ: غلام کا غلام۔ النَّقِيطُ: منع۔ الْمَنْقُوطُ مِنَ الشَّعْرِ: شعر جس کے تمام حروف نقطے والے ہوں۔ بِحَسَابِ مَنْقُوطٍ: کتاب جس میں اعراب لگے ہوئے ہوں۔ نَقَعَ (ف) نَقَعْنَا: آواز بلند کرنا النَّقِيبُ: گریبان پھاڑنا فُلَانًا قَتَلَ كَرْنَا</p>
---	---	---

رَبْقَةُ: تھوک منہ میں جمع کرنا.....
 الْمَوْتُ: زیادہ ہونا..... فَلَانًا بِالشَّمِّ: بہت
 بری گالی دینا..... بِالشَّرَابِ: شفا پانا.....
 الذَّوَاءُ وَغَيْرُهُ فِي الْمَاءِ: بھگونا.....
 الرَّجُلُ: مہمانوں کے لئے جانور ذبح کرنا۔
 نَقَعَ (ف) نَقْعًا وَنُقُوعًا الْمَاءَ فِي بَطْنِ
 الصَّارِخِ بِصَوْتِهِ: لگا تار چلانا..... لَمْ
 الشَّرُّ: ہمیشہ کرنا..... مِنَ الْمَاءِ وَبِهِ: سیراب
 ہونا..... الشَّمُّ فِي أَنْيَابِ الْحَيَّةِ: زہر کا
 سانپ کے دانتوں میں جمع ہونا۔ کہا جاتا
 ہے "مَنْقَعَتْ بِخَبْرِهِ" یعنی میں نے اس کی
 تصدیق نہیں کی۔
 نَقَعَ (ف) نَقْعًا وَنُقُوعًا الْمَاءَ فِي بَطْنِ
 الْوَادِي: پانی کا وادی میں جمع ہونا اور دیر
 تک ٹھہرنا..... الْمَاءُ الْعَطْشُ: پانی کا پیاس
 کو بھگانا۔
 انْقَعَ الذَّوَاءُ وَغَيْرُهُ فِي الْمَاءِ: بھگونا.....
 الصَّارِخِ بِصَوْتِهِ: لگا تار چلانا..... الْمَاءُ
 فَلَانًا: سیراب کرنا..... الْمَاءُ زَرَدٌ هُوَ مَا
 رَنُكٌ بَدَلَ جَانَا..... الرَّجُلُ: مہمانی کے لئے
 ذبح کرنا..... الْحَيَّةُ الشَّمُّ فِي
 أَنْيَابِهَا: سانپ کا زہر کو اپنے دانتوں میں جمع
 کرنا..... بِلْفَلَانِ شَرًّا: دل میں چھپانا.....
 الْمَيْتُ: میت کو دفن کرنا..... الْعَطْشُ: پیاس
 کا بھگانا۔
 انْتَقَعَ النَّقِيعَةُ: مہمانی کے لئے جانور ذبح
 کرنا..... الْقَوْمُ نَقِيعَةُ: تقسیم سے پہلے مال
 غنیمت کے کسی جانور کو ذبح کرنا۔
 انْتَقَعَ لُونُهُ: نم یا گھبراہٹ کی وجہ سے چہرہ کا
 رنگ بدل جانا۔
 اسْتَنَقَعَ الصَّوْتُ: آواز بلند ہونا..... الْمَاءُ:
 پانی کا زرد اور ستیر ہونا..... فَلَانٌ فِي النَّهْرِ:
 نہر میں داخل ہونا اور ٹھنڈک حاصل کرنے
 کے لئے دیر تک ٹھہرنا..... الْمَاءُ فِي الْعَدِيدِ:
 پانی کا تالاب میں جمع ہونا۔
 اسْتَنَقَعَ لُونُهُ: رنگ بدل جانا..... الشَّمُّ فِي
 الْمَاءِ: بھگو یا جانا۔

النَّاقِعُ: فَا سَمَّ نَاقِعٌ: زہر قاتل۔ ذَوَاءٌ
 نَاقِعٌ: مفید دوا۔ دَمٌ نَاقِعٌ: تازہ خون۔
 النَّقْعُ: بھس۔ جمع شدہ پانی جِ انْقَع.
 النَّقْعُ: غبار۔ جِ نَقَاعٌ وَنُقُوعٌ.
 والنَّقْعُ: عظمہ کے قریب ایک جگہ کا نام۔
 سکتائی زمین جس میں پانی جمع ہو۔ نرم و
 ہموار زمین۔ پانی رکنے کی جگہ جِ نَقَاعٌ
 وَاَنْقَعُ. نَقَعَ النُّبْرُ: پانی جو کنوئیں میں جمع
 ہو۔ کنوئیں کے پانی کی زیادتی۔
 النَّقَاعُ: خشک انگور وغیرہ بھگونے کا برتن۔
 النَّقَاعَةُ: پانی وغیرہ جس میں کوئی چیز بھگوئی
 جائے۔
 النَّقَاعُ: نرم و ہموار زمین۔ سکتائی زمین
 جس میں پانی جمع ہو۔ غبار۔ آواز۔ جِ
 نَقَاعٌ.
 النَّقَاعُ: اسم مبالغہ۔ ایسے فضائل کا دعویٰ
 کرنے والے جو اس کے اندر نہ ہوں۔
 النَّقُوعُ: رنگ کہ جس میں خوشبو پڑی ہوئی
 ہو۔ بیٹھا ٹھنڈا پانی۔ وہ چیز جو پانی میں
 بھگوئی جائے۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ نَقُوعٌ
 اُذُنٌ" فلاں ہر چیز تسلیم کر لیتا ہے۔
 النَّقِيعُ: خشک انگور کی شراب جو پانی میں بھگو
 کر بنائی جائے۔ ہر وہ چیز جس میں خشک
 کھجور بھگوئی جائے۔ ٹھنڈا بیٹھا پانی۔ بہت
 پانی والا کنواں۔ جِ انْقَعَةُ: جِج۔ مرد جس کی
 ماں غیر قوم کی ہو۔ ذَوَاءٌ نَقِيعٌ: مفید دوا۔
 النَّقِيعَةُ: کھانا جو سفر سے واپس آنے والے
 کے لئے تیار کیا جائے۔ جانور جو مہمانی کے
 لئے ذبح کیا جائے۔ جِ نَقَاعِجٌ اور اسی سے
 ہے "النَّاسُ نَقَاعِجُ الْمَوْتِ" یعنی موت نے
 لوگوں کو ذبح کر دیا۔
 الانْتَقَاعُ: اسم تفضیل۔ زیادہ پیاس بھگانے
 والا اور اسی سے مثال ہے "الْمَرْشَفُ
 انْتَقَعَ" یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے پینا پیاس کے
 لئے زیادہ بھگانے والا ہوتا ہے۔ جلد بازی
 کے ترک کی مثال دی جاتی ہے۔
 الانْقُوعَةُ: ہر ایسی جگہ جہاں پانی بہہ آئے

"انْقُوعَةُ الْمِيْزَابِ" پرنالے میں پانی بہنے
 کی جگہ۔
 الْمُسْتَنْقِعُ: پانی جمع ہونے کی جگہ۔ تالاب
 کی وہ جگہ جہاں پانی میں گھس کر آدی غسل
 کرے۔
 الْمُسْنَقِعُ: سمندر۔ پانی جمع ہونے کی جگہ۔
 پانی سے سیرابی۔ جِ مَنْاقِعٌ.
 الْمُسْنَقِعُ: برتن جس میں کوئی چیز بھگوئی
 جائے۔
 الْمُسْنَقِعُ: منکا۔ پتھر کا چھوٹا برتن۔ ہر وہ چیز جو
 بھگوئی جائے۔ خالص دودھ کہ جس کو ٹھنڈا
 کریں اور بیٹیں۔ سَمَّ مُسْنَقِعٌ: زہر جس میں
 اور زہر ملا کر قوت بڑھادی گئی ہو۔ کہا جاتا
 ہے "فَلَانٌ مُسْنَقِعٌ" فلاں کی رائے سے تلی
 ہوتی ہے۔
 الْمُسْنَقِعُ: چھوٹی بانڈی جس میں دودھ کھجور
 ڈالتے ہیں اور بچہ کو کھلاتے ہیں۔
 الْمُسْنَقِعَةُ: خشک انگور وغیرہ بھگونے کا برتن
 (..... وَالْمُسْنَقِعَةُ) یعنی مُسْنَقِعٌ.
 نَقَفَ (ن) نَقْفًا هَامَةً الرَّجُلُ: کھوپڑی توڑ
 دینا..... فَلَانًا: ہلکی ضرب مارنا..... الْفَرْخُ
 الْبَيْضَةُ: پرندہ کے بچے کا اڈے میں سوراخ
 کر کے نکالنا۔ السَّرْمَانَةُ: اناج چھیل کر دانے
 نکالنا..... الْحَنْظَلُ وَنَحْوُهُ: اندر اٹن توڑ کر
 دانہ نکالنا۔ صفت فاعلی ناقص اور صفت
 مفعولی نَقِيفٌ وَمُسْنَقِوْفٌ.....
 الشَّرَابُ: صاف کرنا اور بقول بعض ملانا
 عَنِ الشَّمِيِّ: کھو کر دیکر کرنا۔ نَقْفَةُ
 بِظَفَرِهِ: ناخن سے مارنا۔
 نَاقِفُهُ مَنَاقِفَةٌ بِنَاقِفٍ: سر پر تلوار مارنا۔
 انْقَفَ الْجَرَادُ الْوَادِي: انڈوں سے بھر دینا
 فَلَانًا الْعَظْمُ: ہڈی سے مفر نکالنے کے
 لئے دینا (..... وَتَسْقُفُ الْحَنْظَلُ) دانہ
 نکالنے کے لئے اندر اٹن توڑنا۔
 انْتَقَفَ الشَّمِيُّ: نکالنا..... الْحَنْظَلُ: دانہ
 نکالنے کے لئے اندر اٹن کو توڑنا۔
 رَجُلٌ نَقَافٌ: دور اندیش مرد۔ کہا جاتا ہے

”جَاءَ اِنْفِي بِنَافٍ وَاجِدٍ“ وہ دونوں برابر برابر آئے کوئی آگے پیچھے نہیں تھا اور بِنَافٍ: اصل میں ان دو بچوں کو کہتے ہیں جو ایک ہی اٹھ سے نکلیں اور کہا جاتا ہے ”الْيَوْمَ فِخَافٌ وَعَدَا نِفَافٌ“ آج شراب نوشی کا دن ہے اور کل معاملہ ہے۔
النَّفْءُ وَالنَّفْءُ: بچہ جس وقت کرائے سے نکلے۔

النَّفَقَةُ: پہاڑ کی چوٹی یا ٹیلہ پر چھوٹا سا گڑھا۔
النَّفَافُ: اصرار کے ساتھ سوال کرنے والا۔
سوال کرنے میں حریص۔ کڑی کا بہت چھیننے والا۔ رَجُلٌ نَفَافٌ: سردور اندیش۔
النَّفَافَةُ: سوال کرنے میں حریص۔

النَّفِيفُ: جس کو دیکھنے لگا یا ہوج نَفَفَ.

النَّفِيفُ: پرندے کی چونچ۔ ایک قسم کی کوڑی۔

المَنْقُوفُ: مفتح۔ زرد زرد۔ ڈیلا پتلا۔ کمزور جذع مَنْقُوفٌ: دیر تک خوردہ ہونے والا۔ عِشَانٌ مَنْقُوفَانٌ: سرخ آنکھیں۔

نقل (ن) نقلًا الشئ: ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا..... خَفَّ السَّيْرُ وَالسُّبُوبُ او النَّعْلُ: پیوند لگانا اور درست کرنا..... الكَلَامُ عَنِ قَاتِلِهِ: روایت کرنا..... الْكِتَابُ نَقْلٌ كَرْنَا..... الْكِتَابُ اِلَى لُغَةِ كَذَا: ترجمہ کرنا۔

نَقَلَ الشئ: زیادہ منتقل کرنا..... الخَفَّ او السُّبُوبُ: پیوند لگانا اور درست کرنا۔ تشدید مبالغہ کے لئے ہے۔ نَقَلَتِ الشَّجَّةُ الْعَظْمَ: زخم کا ہڈی توڑنا..... فَلَانٌ الضَّيْفُ: مہمان کو نقل کھلانا (دیکھئے نقل)

نَاقِلُ الْقَرْسِ: جلدی جلدی ناکھیں اٹھانا۔
دوڑنے میں پتھروں سے بچنا۔ نَاقِلُهُ الْخَدِيثُ: میں نے اس سے اور اس نے مجھ سے روایت کی۔ نَاقِلُهُ الْاِقْدَاحُ: ایک دوسرے سے لینا دینا۔ نَاقِلْتُ فَلَانًا: پیچھے میں کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا۔ نَاقِلُ الشَّاعِرِ

الشَّاعِرِ: ایک شاعر کا دوسرے شاعر سے مقابلہ کرنا۔

انْقَلَبَ الخُفُّ او النَّعْلُ: درست کرنا۔
تَنَقَّلَ مِنْ مَكَانٍ اِلَى اٰخَرَ: منتقل ہونا۔
زیادہ منتقل ہونا..... الرَّجُلُ نَقِلٌ كَهَاتَا۔
تَنَاقَلُوا الْحَدِيثَ فِيمَا بَيْنَهُمْ: بعض کا بعض سے نقل کرنا۔

انْتَقَلَ مِنْ مَكَانٍ اِلَى اٰخَرَ: منتقل ہونا۔
فُلَانٌ اِلَى رَحْمَةِ اللّٰهِ او اِلَى رِضْوَانِهِ: مرنا۔ انْتَقَلَ الْقَرْسُ: چلنے میں پچھلے پاؤں کو اگلے پاؤں کی جگہ میں رکھنا۔
النَّاقِلُ: قاتل۔ نَاقِلٌ وَنَقْلَةٌ.

النَّقِيْلَةُ النَّاقِلُ: کاموٹ ج نَوَاقِلُ وَنَوَاقِلُ الْمَذْهَبِ: حوادثِ زمانہ۔ جو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف بدلیں۔
النَّقِيْلَةُ مِنَ النَّاسِ: وہ لوگ جن کی عادت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی ہو۔
نَوَاقِلُ الْعَرَبِ: وہ لوگ جو ایک قبیلہ سے دوسری قبیلہ کی طرف منتقل ہوں اور اسی کی طرف اپنی نسبت کریں۔

النَّقَالُ: مصدر ناقل: چوڑے چھوٹے نیزے کے پھل واحد نَقْلَةٌ. النَّقَالُ: اُونٹ کا بغیر کسی کے خود پینا۔ کہا جاتا ہے ”سَرَسَتْ الْاِبِلُ نَقَالًا“ اُونٹ نے خود بخود پانی پیا۔
النَّقَالُ: اسم مبالغہ۔ وہ شخص جو چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرے۔ فَرَسٌ نَقَالٌ: تیز رفتار گھوڑا۔

النَّقْلُ: مہم۔ پرانا جو تازا موزہ۔ کہا جاتا ہے ”نَحَلَ نَقْلًا وَخَفَّ نَقْلًا“ النُّقْلُ وَالنَّقْلُ: وہ چیز جو شراب کے ساتھ استعمال کی جائے جیسے پیتے۔ سیب وغیرہ۔ ج نَقْلُوهُ وَنَقْلَاتٌ: مختصر راستہ۔

النَّقْلُ عِنْدَ اَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ: ایک لفظ کو ایک معنی کے لئے وضع کر لینے کے بعد دوسرے معنی کے لئے وضع کرنا۔

النَّقْلُ: پرانا جو تازا چرمی موزہ۔
النَّقْلُ: پرانا جو تازا چرمی موزہ۔ ج النَّقَالُ

وَنَقَّالٌ. النَّقْلُ: شور و شغب کے ساتھ جواب۔ تیر کا پر جو ایک تیر سے نکال کر دوسرے میں لگایا جائے۔ کہا جاتا ہے ”لَا تَبْرُسْ سَهْمِي بِنَقْلٍ“ تباہ شدہ مکان کا ملبہ۔
چھوٹے چھوٹے پتھر۔ مختصر راستہ۔

مَكَانٌ نَقْلٌ: چھوٹے چھوٹے پتھر والی جگہ۔
رَجُلٌ نَقْلٌ: حاضر جواب۔ سخت جھگڑالو۔
النَّقْلَةُ: نقل کا اسم مرثۃ۔ نقال کا واحد۔

النَّقِيْلَةُ: اسم ہے بمعنی انتقال۔ چغلی۔ ج نَقْلٌ.

النَّقِيْلَةُ: نقل کا اسم نوع۔ عورت جس کو کبر سنی کی وجہ سے پیغام نہ دیا جائے۔ ج نَقْلٌ.

النَّقِيْلُ: مسافر (مذکر و مؤنث) کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ نَقِيْلٌ وَامْرَأَةٌ نَقِيْلَةٌ“ مسافر مرد مسافر عورت۔ سیلاب جو بارش شدہ زمین سے خشک زمین میں آئے۔ کہا جاتا ہے ”هَذَا فَرَسٌ ذُو نَقِيْلٍ“ یہ گھوڑا تیز رفتار ہے۔
النَّقِيْلُ: مختصر راستہ۔ جوتے۔

النَّقِيْلَةُ: مسافر عورت۔ جوتے یا چرمی موزہ کا پیوند۔ ج نَقَالٌ وَنَقِيْلٌ.

فَرَسٌ مَنَاقِلٌ وَنَقَالٌ وَنَقْلٌ: تیز رفتار گھوڑا۔

المُنَقَّلُ: پہاڑی راستہ۔ مختصر راستہ۔ پرانا جوتا۔ یا پرانا چرمی موزہ۔

المُنَقَّلَةُ: سفر کے منازل میں سے ایک منزل۔ نکلنا جو اُونٹ کے کھر میں لگایا جائے۔ اَرْضٌ مَنَقَّلَةٌ: چھوٹے چھوٹے پتھروں والی زمین۔

الجِنَقْلَةُ: نقل مکانی کا آلہ۔ ج مَنَاقِلُ وَالجِنَقْلَةُ عِنْدَ الْمُؤَلِّدِيْنَ: ایک قسم کا کھیل ہے جو ایک بلی کڑی سے بناتے ہیں اور اس میں چوہہ گڑھے دو صف میں بناتے ہیں اور ہر گڑھے میں سات سات کنکریاں ڈالتے ہیں اور پھر اس کو گھماتے ہیں۔

نَقَمٌ (ض) وَنَقَمٌ (س) نَقَمًا وَنِقَامًا مِنْ فُلَانٍ: مزادینا..... الْأَمْرُ عَلَى فُلَانٍ او مِنْ فُلَانٍ: عیب لگانا۔ بہت مکروہ جاننا۔ کہا جاتا

کی چربی۔ رج انقواء۔
النقیة: کلمہ۔ کہا جاتا ہے ”سَمِعْتُ نَقِيَّةً
حَقًّا“ میں نے کلمہ حق سنا۔

النقی: صاف ستھرا۔ رج انقیاء و انقیاء
ونقواء۔

النقیة النقی: کاموث کلمہ۔ رج نقایا۔
المنقی والمنقی: راستہ۔

نک (ن) نکا: علی الغرینم: قرض دار
پرختی برتا..... العمل درست کرنا۔

نک (ف) نکب القرحة: زخم کو اچھا ہونے
سے پہلے جھیل ڈالنا..... العذو و فی
العذو: عمل و خوریزی کرنا..... فلانسا
حقہ: کسی کا حق پورا کرنا۔

انکبا انکباء: حقہ من فلان: حق وصول
کرنا۔ قبضہ کرنا۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ زَكَاةٌ
نُكَاةٌ“ وہ ماوجب کو جلدی ادا کرتا ہے تال
نہیں۔

نکب (ن) نکبا و نکوبا عنہ: تجاوز کرنا۔
ہٹ جانا..... نکبا الشئ وبہ: ڈال
دینا۔ الاناء: برتن سے سب کچھ بہا دینا.....

الکسبانة: ترش سے سب کچھ بکھیر دینا۔
نکبت الحجارة و رجلة: پتھر کا پیر کو زخمی کرنا
(..... نکبا و نکبا) الدهر فلانا: مصیبت
پہنچانا۔ نکبت نکوبا الرینع: ہوا کا بے رخ
چلنا۔

نکب (ن) نکبانة و نکوبا فلان عن
قومہ: مددگار قاتل بھروسہ ہونا۔
نکب (س) نکبا عن الطریق: راستہ سے
ہٹ جانا..... البعیر: تکب بیماری والا ہونا
(دیکھئے بیماری تکب)..... الرجیل: بیمار
کندھے والا ہونا۔

نکب عن الطریق: راستہ سے ہٹ جانا
الگ ہونا..... الشئ: الگ کرنا اور کہا جاتا
ہے ”نکبہ الطریق و نکب بہ الطریق
ونکب بہ عن الطریق“ یعنی اس نے اسے
راستہ سے ہٹا دیا۔

نقی: نقی و انقی الطعام: غلہ کا کوڑا کرکٹ
نکالنا۔ انقی البئر: موٹا دانہ ہونا۔ انقت
الابل و غیرہا: موٹا ہونا۔ گودے دار ہونا۔
صفت منقیة: ج منقیات۔ و انقی
العوذ: بکڑی کا تر ہونا۔

انقواء انقیاء: ۱۔ چننا۔ انقی العظم: ہڈی
سے گودا نکالنا۔
تنقاة تنقیًا: چننا۔ تنقی العظم: ہڈی سے
گودا نکالنا۔
نقاوة الشئ و نقاوتہ و نقایتہ و نقائتہ: عمدہ
حصہ۔ خلاصہ۔ نقاوة کی جمع نقاوی و
نقاہ اور نقایة کی جمع نقایا و نقاء۔
نقادة الطعام و نقائتہ و نقایتہ و نقائتہ: غلہ کا
کوڑا کرکٹ۔ النقاة: ریت کا ٹیلہ جس پر
کچھ نہ اگے۔
النقاوة: ایک قسم کی نباتات جس سے کپڑے
دھوئے جاتے ہیں۔ رج نقاوی۔
النقا: ریت کا مدب ٹیلہ۔ منقی نقوان
و نقیان: رج انقیاء و نقی و نقیان۔ بنات
النقا: ایک قسم کا کپڑا جو ریت میں رہتا ہے
اور اس کو شحمة النقا بھی کہا جاتا ہے۔
النقا و النقا و النقا: گودے دار ہڈی
انقواء۔
النقاوة: چیز کا عمدہ حصہ۔
النقا: نقد کا تابع ہے۔ کہا جاتا ہے ”نقا
نقا“ اور اس کی اصل نقو ہے لام کلمہ کو حذف
کر دیا گیا ہے اور اس کے عوض میں تالا یا گیا
ہے۔

النقی: صاف ستھرا۔ رج انقیاء و انقیاء
ونقواء۔
الانقی: اسم تفصیل۔ مؤنث نقوی۔ رجل
انقی: ہار یک ہڈیوں والا مرد۔ مؤنث نقواء
فخذ نقواء: ہار یک ہڈی کم گوشت والی
ران۔
نقی نقی نقیا العظم: ہڈی سے گودا نکالنا۔
نقیة نقاء نقاء: ملاقات کرنا۔
النقی: ہڈی کا مغز۔ موٹائی کی وجہ سے آکھ

سے ”نقم فلان و قره“ یعنی بدل لیا۔ ”وما
تنقیم منا“ نہیں طعن و تشنیع کرتے ہو تم
(..... نقما) الشئ: جلدی کھانا۔
نقم تنقیما: بہت زیادہ کروہ جانا۔
انقمت منه: سزا دینا۔
النقم: مصل۔ راستہ کا دوسرے۔
النقمة و البقمة و النیمة اسم ہے انتقام کا۔
سزا۔ بدلہ۔ رج بقم و نقم و نقمات۔
النقیمة: بدلے سے نقیة سے۔ کہا جاتا ہے
”فلان ميمون النقيمة“ فلاں پاک لفس
ہے۔
لفنق الصغدع: مینڈک کا ٹرو کرنا۔ ننفقت
العین: آنکھ کا دھسن جانا۔
الینقی: نثر مرخ۔ رج نفاق۔
نقه (ف) نقوها و نقة (س) نقها۔ فلان
من مرضه: صحت یاب ہونا اور ضعف باقی
رہنا۔ صفت ناقة: رج نقفة (..... نقها
و نقوها و نقهانا) الحدیث: سمجھنا۔ صفت
نقة و نافة: کہا جاتا ہے ”فلان لا یفقه ولا
ینفه“ فلاں نہیں سمجھتا ہے۔
انقہ الله من مرضه: مرض سے عافیت دینا
..... فلانا الحدیث: سمجھنا اور کہا جاتا ہے
”انقہ لی سمعک“ یعنی میری طرف کان
لگا۔
انقسه من الحدیث: تسلی پانا..... من
مرضه: مرض سے صحت یاب ہونا اور ضعف
باقی رہنا۔
انستقه: پوچھنا..... الحدیث: سمجھنا۔
النقیة نقه: کا اسم مرہ۔ کہا جاتا ہے ”لله فی
کحل عام مرضة و نقهة“ اس کے لئے ہر
سال میں ایک دفعہ مرض ایک دفعہ صحت
ہے۔
نقا ینقو نقوا۔ العظم: ہڈی سے گودا نکالنا۔
نقی ینقی نقاوة و نقاء و نقاوة و نقاوة
و نقایة: صاف ستھرا ہونا۔ خوبصورت ہونا۔
خالص ہونا۔ صفت نقی۔
نقاة تنقیة و انقاة انقواء: صاف ستھرا کرنا۔

سے گودا نکالنا۔
تنقاة تنقیًا: چننا۔ تنقی العظم: ہڈی سے
گودا نکالنا۔
نقاوة الشئ و نقاوتہ و نقایتہ و نقائتہ: عمدہ
حصہ۔ خلاصہ۔ نقاوة کی جمع نقاوی و
نقاہ اور نقایة کی جمع نقایا و نقاء۔
نقادة الطعام و نقائتہ و نقایتہ و نقائتہ: غلہ کا
کوڑا کرکٹ۔ النقاة: ریت کا ٹیلہ جس پر
کچھ نہ اگے۔
النقاوة: ایک قسم کی نباتات جس سے کپڑے
دھوئے جاتے ہیں۔ رج نقاوی۔
النقا: ریت کا مدب ٹیلہ۔ منقی نقوان
و نقیان: رج انقیاء و نقی و نقیان۔ بنات
النقا: ایک قسم کا کپڑا جو ریت میں رہتا ہے
اور اس کو شحمة النقا بھی کہا جاتا ہے۔
النقا و النقا و النقا: گودے دار ہڈی
انقواء۔
النقاوة: چیز کا عمدہ حصہ۔
النقا: نقد کا تابع ہے۔ کہا جاتا ہے ”نقا
نقا“ اور اس کی اصل نقو ہے لام کلمہ کو حذف
کر دیا گیا ہے اور اس کے عوض میں تالا یا گیا
ہے۔

النقی: صاف ستھرا۔ رج انقیاء و انقیاء
ونقواء۔
الانقی: اسم تفصیل۔ مؤنث نقوی۔ رجل
انقی: ہار یک ہڈیوں والا مرد۔ مؤنث نقواء
فخذ نقواء: ہار یک ہڈی کم گوشت والی
ران۔
نقی ینقی نقیا العظم: ہڈی سے گودا نکالنا۔
نقیة نقاء نقاء: ملاقات کرنا۔
النقی: ہڈی کا مغز۔ موٹائی کی وجہ سے آکھ

سے گودا نکالنا۔
تنقاة تنقیًا: چننا۔ تنقی العظم: ہڈی سے
گودا نکالنا۔
نقاوة الشئ و نقاوتہ و نقایتہ و نقائتہ: عمدہ
حصہ۔ خلاصہ۔ نقاوة کی جمع نقاوی و
نقاہ اور نقایة کی جمع نقایا و نقاء۔
نقادة الطعام و نقائتہ و نقایتہ و نقائتہ: غلہ کا
کوڑا کرکٹ۔ النقاة: ریت کا ٹیلہ جس پر
کچھ نہ اگے۔
النقاوة: ایک قسم کی نباتات جس سے کپڑے
دھوئے جاتے ہیں۔ رج نقاوی۔
النقا: ریت کا مدب ٹیلہ۔ منقی نقوان
و نقیان: رج انقیاء و نقی و نقیان۔ بنات
النقا: ایک قسم کا کپڑا جو ریت میں رہتا ہے
اور اس کو شحمة النقا بھی کہا جاتا ہے۔
النقا و النقا و النقا: گودے دار ہڈی
انقواء۔
النقاوة: چیز کا عمدہ حصہ۔
النقا: نقد کا تابع ہے۔ کہا جاتا ہے ”نقا
نقا“ اور اس کی اصل نقو ہے لام کلمہ کو حذف
کر دیا گیا ہے اور اس کے عوض میں تالا یا گیا
ہے۔

النقی: صاف ستھرا۔ رج انقیاء و انقیاء
ونقواء۔
الانقی: اسم تفصیل۔ مؤنث نقوی۔ رجل
انقی: ہار یک ہڈیوں والا مرد۔ مؤنث نقواء
فخذ نقواء: ہار یک ہڈی کم گوشت والی
ران۔
نقی ینقی نقیا العظم: ہڈی سے گودا نکالنا۔
نقیة نقاء نقاء: ملاقات کرنا۔
النقی: ہڈی کا مغز۔ موٹائی کی وجہ سے آکھ

سے گودا نکالنا۔
تنقاة تنقیًا: چننا۔ تنقی العظم: ہڈی سے
گودا نکالنا۔
نقاوة الشئ و نقاوتہ و نقایتہ و نقائتہ: عمدہ
حصہ۔ خلاصہ۔ نقاوة کی جمع نقاوی و
نقاہ اور نقایة کی جمع نقایا و نقاء۔
نقادة الطعام و نقائتہ و نقایتہ و نقائتہ: غلہ کا
کوڑا کرکٹ۔ النقاة: ریت کا ٹیلہ جس پر
کچھ نہ اگے۔
النقاوة: ایک قسم کی نباتات جس سے کپڑے
دھوئے جاتے ہیں۔ رج نقاوی۔
النقا: ریت کا مدب ٹیلہ۔ منقی نقوان
و نقیان: رج انقیاء و نقی و نقیان۔ بنات
النقا: ایک قسم کا کپڑا جو ریت میں رہتا ہے
اور اس کو شحمة النقا بھی کہا جاتا ہے۔
النقا و النقا و النقا: گودے دار ہڈی
انقواء۔
النقاوة: چیز کا عمدہ حصہ۔
النقا: نقد کا تابع ہے۔ کہا جاتا ہے ”نقا
نقا“ اور اس کی اصل نقو ہے لام کلمہ کو حذف
کر دیا گیا ہے اور اس کے عوض میں تالا یا گیا
ہے۔

النقی: صاف ستھرا۔ رج انقیاء و انقیاء
ونقواء۔
الانقی: اسم تفصیل۔ مؤنث نقوی۔ رجل
انقی: ہار یک ہڈیوں والا مرد۔ مؤنث نقواء
فخذ نقواء: ہار یک ہڈی کم گوشت والی
ران۔
نقی ینقی نقیا العظم: ہڈی سے گودا نکالنا۔
نقیة نقاء نقاء: ملاقات کرنا۔
النقی: ہڈی کا مغز۔ موٹائی کی وجہ سے آکھ

سے گودا نکالنا۔
تنقاة تنقیًا: چننا۔ تنقی العظم: ہڈی سے
گودا نکالنا۔
نقاوة الشئ و نقاوتہ و نقایتہ و نقائتہ: عمدہ
حصہ۔ خلاصہ۔ نقاوة کی جمع نقاوی و
نقاہ اور نقایة کی جمع نقایا و نقاء۔
نقادة الطعام و نقائتہ و نقایتہ و نقائتہ: غلہ کا
کوڑا کرکٹ۔ النقاة: ریت کا ٹیلہ جس پر
کچھ نہ اگے۔
النقاوة: ایک قسم کی نباتات جس سے کپڑے
دھوئے جاتے ہیں۔ رج نقاوی۔
النقا: ریت کا مدب ٹیلہ۔ منقی نقوان
و نقیان: رج انقیاء و نقی و نقیان۔ بنات
النقا: ایک قسم کا کپڑا جو ریت میں رہتا ہے
اور اس کو شحمة النقا بھی کہا جاتا ہے۔
النقا و النقا و النقا: گودے دار ہڈی
انقواء۔
النقاوة: چیز کا عمدہ حصہ۔
النقا: نقد کا تابع ہے۔ کہا جاتا ہے ”نقا
نقا“ اور اس کی اصل نقو ہے لام کلمہ کو حذف
کر دیا گیا ہے اور اس کے عوض میں تالا یا گیا
ہے۔

النقی: صاف ستھرا۔ رج انقیاء و انقیاء
ونقواء۔
الانقی: اسم تفصیل۔ مؤنث نقوی۔ رجل
انقی: ہار یک ہڈیوں والا مرد۔ مؤنث نقواء
فخذ نقواء: ہار یک ہڈی کم گوشت والی
ران۔
نقی ینقی نقیا العظم: ہڈی سے گودا نکالنا۔
نقیة نقاء نقاء: ملاقات کرنا۔
النقی: ہڈی کا مغز۔ موٹائی کی وجہ سے آکھ

سے گودا نکالنا۔
تنقاة تنقیًا: چننا۔ تنقی العظم: ہڈی سے
گودا نکالنا۔
نقاوة الشئ و نقاوتہ و نقایتہ و نقائتہ: عمدہ
حصہ۔ خلاصہ۔ نقاوة کی جمع نقاوی و
نقاہ اور نقایة کی جمع نقایا و نقاء۔
نقادة الطعام و نقائتہ و نقایتہ و نقائتہ: غلہ کا
کوڑا کرکٹ۔ النقاة: ریت کا ٹیلہ جس پر
کچھ نہ اگے۔
النقاوة: ایک قسم کی نباتات جس سے کپڑے
دھوئے جاتے ہیں۔ رج نقاوی۔
النقا: ریت کا مدب ٹیلہ۔ منقی نقوان
و نقیان: رج انقیاء و نقی و نقیان۔ بنات
النقا: ایک قسم کا کپڑا جو ریت میں رہتا ہے
اور اس کو شحمة النقا بھی کہا جاتا ہے۔
النقا و النقا و النقا: گودے دار ہڈی
انقواء۔
النقاوة: چیز کا عمدہ حصہ۔
النقا: نقد کا تابع ہے۔ کہا جاتا ہے ”نقا
نقا“ اور اس کی اصل نقو ہے لام کلمہ کو حذف
کر دیا گیا ہے اور اس کے عوض میں تالا یا گیا
ہے۔

النقی: صاف ستھرا۔ رج انقیاء و انقیاء
ونقواء۔
الانقی: اسم تفصیل۔ مؤنث نقوی۔ رجل
انقی: ہار یک ہڈیوں والا مرد۔ مؤنث نقواء
فخذ نقواء: ہار یک ہڈی کم گوشت والی
ران۔
نقی ینقی نقیا العظم: ہڈی سے گودا نکالنا۔
نقیة نقاء نقاء: ملاقات کرنا۔
النقی: ہڈی کا مغز۔ موٹائی کی وجہ سے آکھ

فَاصْبِرْ: موندھے کے مقابل ہونا۔
 تَنْكَبُ عَنْهُ: الگ ہونا۔ چٹنا۔ گوشہ گیر ہونا۔
 کندھا پھیر کر دوسرے کی جانب متوجہ ہونا
 عَلِيَّ الشَّيْءِ: ٹیک لگانا..... کھنٹانہ او
 قَوْسَهُ: ترکش یا کمان کو کندھے پر ڈالنا اور کہا
 جاتا ہے "تَنْكَبُ عَنْ وَجْهِهِ" میرے
 سامنے سے ہٹ جاؤ۔
 انْصَبَ الرَّجُلُ كَيْفَانَتَهُ او قَوْسَهُ: ترکش یا
 کمان کو کندھے پر ڈالنا۔
 النُّكْبُ: معصیت۔ معصیت۔ مع نکوب۔
 النُّكْبُ: وہ شخص جس کا پاؤں پتھر لگنے سے
 زخمی ہو۔
 النُّكْبُ: معص۔ کسی چیز میں تھوڑی سی کمی۔
 ایک بیماری جو اونٹوں کے موندھے میں
 ہوتی ہے جس سے وہ لنگڑا ہو جاتا ہے اور
 کچھ بڑھ چلنے لگتا ہے۔
 الانْكَبُ: جس کے پاس کمان نہ ہو۔ نكب
 کی بیماری والا اونٹ۔ جس کا ایک موندھا
 دوسرے سے بلند ہو۔ مردستم گار۔ جنا کار۔
 کہا جاتا ہے "زَجَلُ انْكَبٍ عَنِ الْحَقِيقِ
 وَنَاكِبٌ عَنْهُ" حق سے اعراض کرنے والا
 مرد۔
 النُّكْبَاءُ: الانْكَبُ: کامونٹ۔ رِنْعُ
 نَكْبَاءُ: خلاف رخ چلنے والی یادو ہواؤں کے
 درمیان چلنے والی ہوا۔ ج نُّكْبِي
 وَنُكْبَاوَاتٍ: نُكْبٌ رِيحٌ: چار ہیں۔
 الاَرْيَبُ: صبا اور جنوب کے درمیان۔ ۲۔
 الضَّابِيَةُ: صبا اور شمال کے درمیان اور اس کو
 نَكْبِيَّةٌ بھی کہتے ہیں اور یہ تفسیرِ عظیم کے لئے
 ہے اس لئے کہ عرب اس کو بہت ٹھنڈی سمجھتے
 ہیں۔ ۳۔ الجربياء: شمال اور دبور کے
 درمیان اور الهيف: جنوب اور دبور کے
 درمیان۔
 النُّكْبَةُ: نكب: کا اسمِ مرء۔ معصیت۔ مع
 نكبات۔
 النُّكْبَةُ: فلک کی غیر معین مقدار۔ مع نكب۔
 النُّكْبِيُّ: کھر کا گرد اگرد۔

الجُنْكَابُ: مردستم گار و جنا کار۔ کہا جاتا ہے
 زَجَلُ بِنْكَابٍ عَنِ الْحَقِيقِ: حق سے روگردانی
 کرنے والا مرد۔
 النُّنْبُجُ: موندھا۔ مع مَنَابِجُ کہا جاتا
 ہے "تَنْشَابُهُتُ مِنْهُمُ الْمَنَابِجُ وَ
 الرَّوْؤُسُ" وہ سب مساوی ہیں کوئی ان میں
 بڑھا ہوا نہیں اور کہا جاتا ہے "هَرْمُ مَنْبِجِيَّةٌ
 لِجَدًّا" وہ فلاں چیز سے خوش ہوا۔ "وَفَلَانٌ
 مَعِي عَلِيَّ خَدِّ مَنْبِجٍ" فلاں مجھ سے
 "کنارہ کمر ہے۔ النُّنْبُجُ: پہلو۔ گوشہ۔ کہا
 جاتا ہے "بَسْرُنَا فِي مَنْبِجٍ مِنَ الْأَرْضِ او
 النُّجْبِلُ" ہم زمین یا پہاڑ کے پہلو میں چلے۔
 الْمَنْبِجُ مِنَ الْقَوْمِ: چودھری مددگار.....
 مِنَ الْأَرْضِ: راستہ بلند جگہ۔ کہا جاتا ہے
 "إِنْشُوا فِي مَنَابِجِهَا" اس کی بلند جگہوں
 میں چلو۔ مَنْبِجُ الْخَوْزَا وَمَنْبِجُ ذِي
 الْعَنَانِ وَمَنْبِجُ الْقَرَسِ: ستاروں کے
 نام۔
 الْمَنَابِجُ: مَنْبِجُ: کی جمع..... فی ريش
 الطَّائِرِ: پرندہ کے بڑے پروں کے بعد چار
 پر (جمع ہے اس کا واحد ريش)
 الْمَنْكُوبُ: معص۔ معصیت زدہ.....
 النُّكْبِيُّ: جس کا پاؤں پتھر لگنے سے زخمی
 ہو۔
 نَكْتُ (ن) نَكْنَا الْأَرْضَ بِمَقْبِيبِ او
 بِاصْبِيحِهِ: سوچ کی حالت میں چھڑی یا انگلی
 سے زمین کو کریدنا..... النَّاسُ
 بِالْحَصَى: زمین پر نکل کر پھینکتا.....
 الْقَرَسُ: گھوڑے کا اُچھلنا۔ کہا جاتا ہے "مَرُّ
 الْقَرَسِ يَنْكُتُ" گھوڑا اُچھلنا ہوا گزرا.....
 الْعَظْمُ: ہڈی سے گودا نکالنا..... فَلَانًا: سر
 کے بل گرانہ اور اسی سے ہے "لَا نَكْنُسُ
 بَكِ الْأَرْضِ" میں تجھ کو زمین پر سر کے بل
 گردوں گا..... كَيْفَانَتَهُ: ترکش سے نکھیر
 دینا۔
 نَكْتُ الرُّطْبُ: پکانا شروع ہونا..... فِي
 قَوْلِهِ: نَكْتُ جِي كَرْنَا۔

انْكَتُ: سر کے بل گرانہ۔ کہا جاتا ہے "نَكْنَةُ
 فَانْكَتُ" اس نے اسے سر کے بل گرا یا وہ گر
 گیا۔
 النُّكْتَةُ: داغ۔ زمین میں کریدنے کا اثر۔ مع
 نَكْتُ وَنَكَاتٍ: النُّكْتَةُ: آئینہ یا کموار میں
 دھبہ، مشکل مسئلہ جو وقت نظر سے حاصل
 ہو۔ لطیفہ۔
 النُّكَاتُ: بڑا کتہہ جیسے بڑا آ ہو گیا۔ وہ شخص
 جو اپنے کلام میں لطائف بیان کرے۔
 النُّكَيْتُ: مطعون۔ وہ شخص جسے طعن تشنیع کیا
 گیا ہو۔
 الْمُنْكُوتُ: مفع۔ سر کے بل گرا ہوا۔
 نَكْتُ (ن ض) نَكْنَا الْعَهْدَ او الْبَيْعَ: عہد کو
 توڑنا۔ بیع کو فسخ کرنا..... النُّجْبِلُ او
 الْكِنَاءُ: رستی یا کھل ادھیڑنا.....
 الْجَسَاكُ: مسواک کی کوچی بنانا۔
 تَنَاكْتُوْا غُفُوْدَهُمْ: آپس میں معاہدہ توڑ
 دینا۔
 انْكَتُ: النُّجْبِلُ وَغَيْرُهُ: ریش وغیرہ کو اڈھیڑا
 جانا..... السَّوَاكُ: کوچی بننا..... فَلَانٌ مِنْ
 خَاجَةِ النِّبْيِ الْاٰخِرَى: ایک کام سے ہٹ کر
 دوسرے میں لگنا۔
 النُّكَاثُ: پھنسیاں جو اونٹ کے منہ میں نکلتی
 ہیں۔
 النُّكَاثَةُ: رستی کا ادھیڑا ہوا کنارہ۔
 النُّكْتُ: دوبارہ کاٹنے کے لئے ادھیڑا ہوا
 کھل یا خیر۔ مع انْكَاتُ کہا جاتا ہے
 "جَبَلٌ يَنْكُتُ وَانْكَاتٌ" اُدھیڑی ہوتی
 رستی۔
 النُّكَيْتُ: ادھیڑا ہوا۔ مَوْنُتُ نَكْبِيَّةٌ.
 النُّكْبِيَّةُ: نفس۔ طبیعت۔ قوت۔ پوری
 طاقت۔ مشکل کام جس میں لوگ اپنے عہد کو
 توڑ دیں۔ اور کہا جاتا ہے "قَالَ قَوْلًا لَا
 نَكْبِيَّةَ فِيهِ" اس نے ایسی بات کہی جس میں
 خلاف وعدگی نہیں "وَصَرَفَ فِيهِ
 نَكْبِيَّةً" اس نے اس میں پوری طاقت
 صرف کی۔ "وَقَفُّوا فِي النُّكْبِيَّةِ" وہ مشکل

کام میں پڑ گئے۔ "وَهُوَ ذُو نَكِيْفَةٍ
خَسَنِيَّةٌ" وہ اچھی طبیعت والا ہے۔ ج
نکایث
النَّكَاتُ: بنے ہوئے کو پرانا ہونے کے بعد
ادھیڑنے والا۔ کہا جاتا ہے "بِعِيُوْرٍ مُّتَّكِبَتْ
" لاغر و بلا اوتھ۔
نَكْحَ (ن ف ض) نِكَاحًا وَنَكَحَ الْمَرْأَةَ:
عورت سے شادی کرنا۔ نَكَحَتِ الْمَرْأَةَ:
عورت کا شادی کرنا۔ صَفَتِ نَكِيْحًا
وَنَاكِحَةً. نَكْحَ الْمَطْرَ الْأَرْضَ: بارش کا
زمین میں جذب ہونا..... الدَّوَاءُ فُلَانًا: دوا
کا کسی کے اندر اثر کرنا..... النَّعْسُ
غَيْبَةٌ: آنکھوں میں نیند کا غالب ہونا۔
النَّكْحَةُ الْمَرْأَةُ: شادی کرانا۔
تَنَاكَحُوا: ایک دوسرے سے شادی کرنا۔
تَنَاكَحَتِ الْأَشْجَارُ: درختوں میں آپس
میں گتہ جانا۔
اسْتَنكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ: شادی کرنا۔
فِي بَنِي فُلَانٍ: نکاح کرنا..... السُّوْمُ
عِيُوْرَتُهُمْ: نیند کا غالب آنا۔
النَّكْحُ: سخت پرہیزگار (عامی لفظ)
النَّسَائِحُ: عورتیں۔
نَكْحَ (ن ف) نَكَحْنَا فُلَانًا فِي خَلْقِهِ: خلق
میں نکا مارنا۔ نیزہ مارنا۔
نَكَدَ (ن) نَكَدْنَا فُلَانًا خَاجِنَةً: مجروح کر دینا
تھوڑا سا دینا۔ نَكَدَ الْغُرَابُ: کوءے کا بہت
کاؤں کاؤں کرنا..... السُّوْمُ الرَّجُلُ:
کثرت سوال سے تنگ دست بنا دینا۔ نَكِدَ
الرَّجُلُ: بہت سوال والا اور کم داد و دہش
والا ہونا۔
نَكِدَ (س) نَكَدْنَا الْعَيْشُ: تنگ ہونا.....
الرَّجُلُ: تنگ گزارن والا ہونا۔ نَكِدَتِ
الْبُنُوْرُ: کنوئیں میں کم پانی ہونا۔
نَكَدَ: غیبی زندگی کو تنگ بنا دینا..... فُلَانًا:
مکدر زندگی والا کر دینا۔
نَاكِدَةٌ: سختی برتنا۔
النَّكْدَةُ: کم داد و دہش والا پانا۔

تَنَكَّدَ: غَشِيَتْهُ: مکدر ہونا۔
تَنَاكَدًا: باہم سختی برتنا۔
النَّكِيْدُ: فَا نَقَاةٌ نَاكِيْدَةٌ: کم دودھ والی اونٹنی
وہ اونٹنی جس کے پیچے زندہ نہ رہتے ہوں۔
رَجَ نَكْدًا..... رَجُلٌ نَكِيْدٌ وَنَكْدٌ
وَنَكْدٌ: دشوار خو۔ کم داد و دہش والا۔ ج
النَّكَاذُ وَنَاكِيْدٌ.
أَرْضُوْنَ نَكَاذًا: کم نیات والی زمین۔
النَّكْدُ: بے دودھ والی اونٹنیاں۔ بہت
دودھ والی اونٹنیاں (ضد) واحد نَكْدَةٌ.
النَّكْدُ وَالنَّكْدُ: کم داد و دہش۔ مَاءٌ نَكْدٌ: کم
پانی۔
الانكيد: مرد دشوار خو۔ کم داد و دہش والا۔
مَوْثٌ نَكْدَةٌ: ج نَكْدٌ کہا جاتا ہے "جِئَاءَ
مُنَكْدًا" وہ آیا اس حال میں کہ اس کا آنا
اچھا نہیں اور یہ کہ خالی خولی آیا۔
عَطَاءٌ مُنَكَّدٌ وَمُنَكَّوْدٌ: تھوڑا عطیہ۔ رَجُلٌ
مُنَكَّوْدٌ: وہ مرد جس سے سوال میں اصرار کیا
جائے۔
نَكِرَ (س) نَكِرْنَا وَنَكِرْنَا وَنَكِرْنَا وَنَكِرْنَا
الْأَمْرُ: ناواقف ہونا..... الرَّجُلُ: نہ پہچانا۔
نَكِرَ (ك) نَكَرَةُ الْأَمْرُ: دشوار ہونا۔
نَكِرَةٌ: دگرگوں کر دینا۔ نَكِرَ الْإِسْمُ: نکرہ
بنانا۔
نَاكِرَةٌ مُنَاكِرَةٌ: مقابلہ کرنا۔ لڑائی کرنا۔
دھوکا دینا۔
انكروہ: جاہل ہونا۔ انكرو حَقَّةً: حق کا انکار
کرنا۔ انكرو عَلَيْهِ فَعَلَهُ: عیب لگانا اور منع
کرنا۔
تَنَكَّرَ الرَّجُلُ: اچھی حالت سے بد حال ہونا
دگرگوں ہونا..... فُلَانٌ: بدخلق ہونا.....
لِفُلَانٍ: اجنبی ہونا۔
تَنَاسَرَ: دانستہ ناواقف بننا.....
الْأَمْرُ: ناواقف ہونا..... السُّوْمُ: آپس
میں دشمنی کرنا اور ایک دوسرے کا انکار کرنا۔
اسْتَنَسَرَ الْأَمْرُ: ناواقف ہونا..... أَمْرًا
بِجَهْلِهِ: غیر معلوم چیز کو پوچھنا۔

النَّكَازَةُ: مَسْ - چالاک۔ تیز فہمی۔ جہالت۔
النَّكْرُ: مَسْ - چالاک و تیز فہمی۔
النَّكْرُ: مَسْ - چالاک و تیز فہمی۔ بُرْ كَامٌ -
بہت بُرْ كَامٌ۔
رَجُلٌ نَكْرٌ وَنَكْرٌ وَنَكْرٌ: چالاک تیز فہم۔ ج
النَّكَارُ: امْرَأَةٌ نَكْرٌ: چالاک و سمجھ دار عورت۔
النَّكْرُ: نا شناختہ۔ سخت کام۔
النَّكْرَاءُ: چالاک و تیز فہمی۔ نا شناختہ
مصیبت۔ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ ذُو
نَكْرَاءٍ" فلاں چالاک و عقلمند ہے
"وَأَصَابَتْهُمْ مِنَ الدَّهْرِ نَكْرَاءٌ" زمانے کی
سختی ان پر واقع ہوئی۔
نَكْرَاءُ الدَّهْرِ: زمانے کی سختی۔
النَّكْرَةُ: النكار - ضد معروف۔ خون یا پیپ کا
پھوڑا۔ ج نَكْرَاتُ.
النَّكْرَةُ: اسم ہے انکار کا جیسے نَفَقَةٌ اِنْفَاقٌ کا۔
النَّكْبِيُّ: دگرگوئی۔ اَمْرٌ نَكْبِيٌّ: سخت کام۔
جِصْنٌ نَكْبِيٌّ: مضبوط قلعہ۔
المُنَكَّرُ: مَنَعٌ - خلاف مرضی خدا قول ہوا
فعل اور اس کا ضد معروف ہے۔ ج
مُنَكَّرَاتٌ وَ مَنَاكِرٌ اور کہا جاتا ہے "رَجُلٌ
مُنَكَّرٌ" چالاک تیز فہم مرد۔ ج مَنَكَّرُوْنَ
وَمَنَاكِبِيٌّ.
المُنَكَّرُ: مَنَعٌ - مجبُول۔ ج مَنَاكِبِيٌّ.
المَنَاكِبِيُّ: خلاف مرضی خدا اُمُوْر - کہا جاتا
ہے "هُمُ يَسْرُبُونَ المَنَاكِبِيَّ
وَالْمُنَكَّرَاتِ" یعنی وہ لوگ اُمُوْر غیر
پسندیدہ میں مبتلا ہیں۔
المُنَكَّرُ عِنْدَ النُّحَاةِ: اسم نکرہ۔ ضد معروف۔
نَكَرَتْ (ن) نَكَرْنَا: الْخِيَّةُ فُلَانًا: سانپ کا
ڈسنا..... فُلَانًا: مار کر ہٹانا..... الشَّيْءُ: چھوٹا
..... الذَّابَّةُ بَعْقِيَه: ایڑ لگا کر ہانکنا..... نَكَرْنَا
وَنَكْرُوْا: المَاءُ: پانی کا چھپے اتر جانا.....
النَّحْرُ: خشک ہونا..... البُسْرُ: کنوئیں میں پانی
کم ہونا یا ختم ہونا۔
نَكَرَتْ (س) نَكَرْنَا البُسْرُ: کنوئیں میں پانی
کم ہونا یا ختم ہونا۔ نَكِرَ النَّحْرُ: گھٹنا۔

انکوز البئر: کنوئیں کا پانی ختم کر دینا۔
النَّكُوزُ: فَا بِنُو نَاكُوزٍ: کنواں جس کا پانی ختم ہو گیا ہو۔ ج نَوَاكُوزِ.

البئر: رذیل لوگ۔ ہڈی میں باقی ماندہ مغز (.....) والسنکوز: خالی۔ کہا جاتا ہے "جاء يَكُوزُ وَمُنْكَزُ" یعنی وہ خالی خالی آیا۔
بئر نیکوز: کم پانی والا کنواں۔

النکاز: اسم مبالغہ۔ ایک بہت ہی غیبت قسم کا سانپ جو منہ سے نہیں کاٹتا بلکہ ناک سے پھنکار مار کر ہلاک کرتا ہے اور اتنا پار یک ہوتا ہے کہ اس کے سر اور دم میں تیز نہیں ہوتی ج نکازینو ونگازات.

البئر النکوز: کنواں جس کا پانی ختم ہو گیا ہو ج نکوز کہا جاتا ہے فلان بمنکوزة من العیش: فلاں تنگ زندگی میں ہے۔

نکسة (ن) نکسا: اوندھا کر دینا۔ نکس زاسة: ذلت سے سر جھکانا..... الطغام وغیره ذاء المسریض: کھانے وغیرہ کا مریض کے مرض کو لوٹا دینا.....
البحضاب: بار بار لگانا۔ کہا جاتا ہے "نکست فلانا فی ذلک الامر" میں نے فلاں کو اس معاملہ میں پھر پھنسا دیا۔

نکس السریض: دوبارہ بیمار ہونا.....
الرؤجل: ضعیف و عاجز ہونا..... الرؤجل عن نظر الہ: اپنے ہم جو لیوں سے کوتاہی کرنا۔
نکسة تنکسا: اوندھا کرنا۔ نکس الفرس: گھوڑوں سے نڈل سکتا۔ صفت منکس.

تنکس: اوندھا ہونا۔
انتکس: سر کے بل گرانا.....
السریض: صحت یابی کے بعد دوبارہ بیمار ہونا۔

النکاس: فاجہ سرجھکانے والا مرد۔ ج نواکس (شاز)

النکاس: صحت یابی کے بعد مرض کا عود کرنا۔

النکس: صحت یابی کے بعد مریض کا عود

کرنا۔ گرنے کے بعد ابھی سیدھا نہیں ہوا تھا کہ پہلی دفعہ کے گرنے سے زیادہ زور سے گرنا اور کہا جاتا ہے تغسا لفلان و نکسا او ونکسا کلمات بد دعا ہیں یعنی فلاں کے لئے ہلاکت و سرگونی ہو۔

النکس: تیر کہ جس کا سراٹوٹ گیا ہو اور اس کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا گیا ہو۔ کمان کہ جس میں شاخ کے سرے کو پھلا حصہ بنا نہیں (اور یہ کمان میں عیب ہے) کزورو پیچ و بے برکت مرد۔ پست قد۔ کرم و سخاوت میں کوتاہی کرنے والا۔ ج انتکس.

النکس: بہت بوڑھے لوگ۔ واحد ناکس.
المنکس: فاجہ آہستہ چلنے والا گھوڑا جو اپنے سر کو نہ اٹھائے وہ گھوڑا جو گھوڑوں سے نڈل سکے۔

المنکوس: مفع۔ دوبارہ بیمار ہونے والا۔ من الاولاد: پیدائش میں جس کے پیر پہلے نکلیں قوس منکوس: کمان کہ جس میں شی کے سرے کو پھلا حصہ بنا نہیں۔

نکش (ن ض) نکسا البئر: کنوئیں کی کچھڑ تک نکال دینا..... الشی: فاجہ کر دینا..... الشی و من الشی: فارغ ہو جانا۔

انتکش البئر: کنوئیں کو کچھڑ تک صاف کر دینا۔

المنکش: معاملات میں خوب غور کرنے والا۔

المنکاش: کنواں صاف کرنے کا آلہ۔ ج مناکیش.

المنکوش: مفع۔ سقط منکوش: ٹوکرا جس میں سب کچھ نکال لیا گیا ہو۔

نکص (ن ض) نکصا و نکوصا و منکصا عن الامر: ترک جانا۔ صفت ناکص نکص علی عقبیہ: پہلے کام سے ہٹ جانا (اس کا استعمال عموماً خیر سے رجوع کے موقع پر ہوتا ہے اور شر سے نادر طور پر)

نکصة: بنا دینا۔

انتکص الرؤجل: پچھلے پاؤں لوٹنا۔

المنکص: مضم۔ ٹٹنے کی جگہ۔

نکظ (ن) نکظا: بہت بھوکا ہونا۔ فلانا عن حاجتہ: جلدی کرانا۔

نکظ (س) نکظا: اپنی ضرورت میں جلدی کرنا..... لسخرؤج: نکلنے کے لئے جلدی کرنا۔

الرؤجل: قریب ہونا۔
نکظہ عن حاجتہ: جلدی کرنا۔ نکظ حاجتہ: دشوار کرنا۔

انکظہ عن حاجتہ: جلدی کرنا۔
تسکظ السرجل: سفر میں بد حال ہونا.....

علی فلان: نکل کرنا..... الامر علیہ: پیچیدہ ہونا۔

السکظ والسکظ والسکظہ والنکظہ والمنکظہ: کوشش۔ سفر کی سختی۔ جلدی۔

نکعة (ف) نکعا عن الامر: جلدی کرانا یا رد کرنا..... فلانسا: پاؤں کی پشت سے مارنا..... فلانسا حقہ: حق روک دینا..... نکعا وتکعاغا: الماشیة: مویشی کے تھن پر مار کر دودھ نکالنا..... فلان عن الحاجة: سستی کرنا۔ اور مانا نکع: بمعنی مسازال: افعال ناقصہ میں سے ہے "وقنا اذری اینس نکع" میں نہیں جانتا کہاں گیا۔

نیکع (س) نکعا: چھلی ہوئی ناک والا ہونا۔

نکعة عن حاجتہ: بنا دینا۔ جلد بازی سے زندگی کو مکدر کر دینا۔

انکعة: رد کرنا۔ دفع کرنا۔ تھکانا۔ عن الامر: جلدی کرانا۔ بنا نا۔ انتکعت فلانا بعینہ: کسی کا مطلوب باوجود طلب کے فوت ہونا۔ کہا جاتا ہے "تکلم فانکعة" اس نے گفتگو کر کے اسے خاموش کر دیا "و فسرب فسانکعة" اس نے پیابیاں تک کہ اس کی طبیعت مکدر ہو گئی۔

النکع: مرد سرخ قام۔ چھلی ہوئی ناک والا۔ کہا جاتا ہے "احمض نکع" یعنی بہت سرخی والا۔

النُّكْحُ: سرخ رنگ۔ مرد سیاہ۔ سرخی مائل۔
نُكْحَةُ الْأَنْفِ: ناک کا کنارہ۔

النُّكْحَةُ: مرد سرخ فام جس کی ناک چھیل گئی ہو۔ بے وقوف کہ جب کہیں بیٹھ جاؤ تو تلے نہیں۔

النُّكْحَةُ: ناک کا کنارہ۔ ایک سرخ رنگ کے درخت کا پھل۔ درخت قنارہ کا گوند۔ مرد کی سرخی ملی ہوئی سیاہی۔

الْأَنْكُحُ: مرد سرخ فام جس کی ناک چھیل گئی ہو۔

الْمُنْكُحُ: پیچھے کولونے والا۔ أَنْفٌ مُنْكُحٌ: چھٹی ناک۔

نُكْفٌ (ن) نُكْفًا عَنْ كَذَا: ناک بھوں چڑھانا۔ باز رہنا۔ الگ ہونا۔ صفت ناکف۔

فُلَانٌ الْغَيْثُ: بارش منقطع ہونا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا غَيْثٌ لَا يَنْكُفُهُ أَحَدٌ" یہ ایسی بارش ہے جس کے متعلق کوئی نہیں جانتا کہ اس کی انتہا کہاں ہے "وَوَغَيْثٌ لَا يَنْكُفُ" منقطع نہ ہونے والی بارش "وهذا جيشٌ أو بحرٌ لا يَنْكُفُ" یہ لشکر غیر محدود ہے یا یہ سمندر اتھاہ ہے۔ نَكْفُ الدَّمْعِ: بر خساروں پر سے اٹھانے سے پونچھنا۔

نُكْفٌ (س) نُكْفًا مِنْهُ او عَنْهُ: ناک بھوں چڑھانا۔ باز رہنا۔ بیزار ہونا۔ نَكْفَتِ الْيَدُ: درد رسیدہ ہونا..... الرَّجُلُ: حلق کے درد کی وجہ سے جڑے کے خدود کا گر جانا۔

نَاكْفَةُ الْكَلَامِ مُنَاكْفَةٌ: ترکی بہ ترکی جواب دینا۔

انْكُفَةُ: تنگ و عار سے پاک کرنا۔ انْكُفَ اللَّهُ: تزیین و تقدیس کرنا۔

نُكْفِتِ الْأَبْلُ: اُوٹ کی ٹھنڈی کے نیچے خدود ظاہر ہونا۔

تَنَاكَفُوا الْكَلَامَ: باہم باری باری گفتگو کرنا۔

انْتَكَفَتِ الْغَيْثُ: منقطع کرنا..... الْقَوْمُ: ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانا..... إِلَيْهِ:

مائل ہونا۔ کہا جاتا ہے "انْتَكَفَتْ لَهْ فَضْرَنْتُهُ" میں اس کے اوپر جھک پڑا اور میں نے اس کو مارا..... السَّجُلُ: ریش کا ادھرنا..... الرَّجُلُ: بیزار ہونا..... العَرَقُ: عَن جَبِيْنِه: پیشانی سے پسینہ پونچھنا۔

انْتَكَفَتِ الرَّجُلُ: تکبر کرنا..... مِنْ كَذَا: تنگ و عار یا فرد کی وجہ سے باز رہنا.....

النُّكَاةُ: اُوٹوں کے طلق کا مرض جس سے فوراً موت واقع ہو جاتی ہے۔

النُّكَاةُ: بچوں کے جڑے کے نیچے خدود کا پھول جانا۔

النُّكْفُ: مص۔ کان کی لو کے قریب شوڑی کی جڑ میں چھوٹے چھوٹے خدود۔ واحد نُكْفَةٌ.

رَجُلٌ نَكِفٌ: مرد جس سے ناک بھوں چڑھائی جائے۔

النُّكْفَتَانِ وَالنُّكْفَتَانِ: داڑھی۔ بچے کے دائیں بائیں کے جڑے۔ ج نكفات.

النُّكْفَةُ: کان کا درد۔
الْمُنْكُوفُ: مطح۔ نكاف زدہ اُوٹ (دیکھئے نكاف).

نُكْلٌ (ض ن) نُكْلًا وَنُكْلٌ (س) نُكْلًا: عَنْ كَذَا او مِنْ كَذَا: پیچھے ہٹنا اور بزدل کرنا۔ کہا جاتا ہے "نُكْلٌ عَنِ الْعُدُوِّ وَعَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الْجَوَابِ" وہ دشمن سے پیچھے ہٹ گیا اور قسم و جواب سے باز رہا۔

نُكْلٌ (ن) نُكْلَةً بِفُلَانٍ: عبرت ناک سزا دینا۔
نُكْلٌ (س) نُكْلًا: سزا قبول کرنا۔
نُكْلٌ بِهِ: مصیبت ڈالنا۔ عبرت ناک سزا دینا۔
نُكْلَةٌ عَنِ الشَّيْءِ: باز رکھنا۔ یکسو کرنا۔
انْكَلَهُ عَنْهُ: ہٹانا۔ دفع کرنا۔
النَّكِيلُ: فاق۔ بزدل کمزور۔

النُّكَالُ: عقوبت۔ سزا۔ عبرت ناک سزا۔

النُّكْلُ: مضبوط بیڑی۔ ج انكال و نُكُولُ: لگام کا لوہا۔ مہار "فُلَانٌ يَنْكُلُ شَرًّا" فلاں

برائی کے لئے قید ہے۔ یعنی دشمنوں کے لئے تازیانہ ہے۔

النُّكْلُ: قوی مرد۔ ہمسر پر غالب آنے والا۔ مضبوط سدھا ہوا گھوڑا۔ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ نُكْلٌ شَرًّا" فلاں دشمنوں کے لئے تازیانہ ہے۔

النُّكْلَةُ: عبرت ناک سزا۔ کہا جاتا ہے "زَمَانَةٌ مُنْكَلَةٌ" اس نے اس کو عبرت ناک سزا دی۔

الْمُنْكَلُ: عبرت ناک سزا۔

الْمُنْكَلُ: سزا دینے کا سامان۔

النُّكْمَةُ: سخت مصیبت۔

نُكْنِكُ نَكْنِكَةً الْأَمْرُ: درست کرنا.....

عَلَى غَيْرِ مَبْنِيَةٍ: سختی کرنا۔

نُكَّةٌ (ف ض) نُكْهًا لِفُلَانٍ وَعَلَيْهِ: کسی کی ناک پر سانس لینا۔ نُكْهَتِ الشَّمْسُ: آفتاب کا سخت گرم ہونا۔

نُكْهَةٌ وَنُكْهَةٌ (س ف) نُكْهًا: کسی کا منہ سوگھنا۔

نُكْهَةُ الرَّجُلِ: بدبشمی کی وجہ سے منہ کی بو کا بدل جانا۔

اسْتَنْكَهَتْ: کسی کے منہ کی بو سوگھنا۔ کسی کے منہ کی بو سوگھنے کا حکم دینا۔ کہا جاتا ہے "اسْتَنْكَهْتُ الرَّجُلَ فَنُكْهَتْ فِي وَجْهِهِ"

میں نے مرد کے منہ کی بو سوگھنا چاہا اس نے میرے منہ کے سامنے سانس لیا۔

النُّكْهَةُ: ننگہ۔ کا اسم مرؤ۔ منہ کی بو۔

نُكِي يَنْكِي نَكِيَةً الْعُدُوِّ وَهِيَ الْعُدُوُّ: قتل کر کے یا زخمی کر کے غالب آنا۔ صفت فاعل نك و صفت مفعول منكِي.....

السَّرْحَةُ: زخم کو ابھنے ہونے سے پہلے پھیل ڈالنا۔

نُكِي يَنْكِي نَكِيَةً: شکست کھانا۔ مغلوب ہونا۔ مقہور ہونا۔

النُّكْلُ: کمزور بڑھا۔

نَمَّ (ن ض) نَمًّا الْخَدِيثُ: چغل خوری کرنا..... الْخَدِيثُ: ظاہر ہونا..... يَسِينُ النَّاسُ:

بھڑکانا..... الْكَلَامُ: جھوٹ سے آراستہ کرنا

..... الشی: خوشبو پھیلانا۔ نَسَبَ الرِّيحُ: ہوا کا بکولانا۔
 النَّامُ: فاج۔ نَجَّامُ: النَّمَاةُ. النَّامُ: کاموٹ۔ حس۔ حرکت۔ زندگی۔ کہا جاتا ہے "أَسْكَبَتِ اللّٰهُ نَامَتَهُ" یعنی اللہ سے موت دے۔
 النَّمَّ: نم۔ چغل خور۔ نَجَّ نَمُونٌ وَأَنْمَاءٌ وَنَمَّ: النَّمَامُ: چغل خور۔ ایک خوشبودار تم کی نباتات۔ واحد نَمَامَةٌ.
 النَّمَّةُ: نم۔ کا اسم مرۃ۔ نم کاموٹ۔ یہ ہی میں سفید یا سفیدی میں سیاہ داغ اور کہا جاتا ہے "سَمِعْتُ نَمَّةً" میں نے اس کی حرکت سنی۔
 النَّمَّةُ: نم۔ کا اسم نوع۔ جوں۔
 النَّمِيَّةُ: خیانت۔ عیب۔ دشمنی۔ طبیعت۔ انسان کا جو ہر یا اصل نَمِي الرَّجُلِ: مروکی طبیعت۔ کہا جاتا ہے "صَافِي الدَّارِ نَمِيَّةٌ" گھر میں کوئی نہیں۔
 النَّمِيَّةُ: نمي۔ کا واحد۔ فاختہ۔ طبیعت۔
 النَّمُومُ: چغل خور۔
 النَّمِيمُ وَالنَّمِيمَةُ: چغل خوری۔ حرکت۔ نکلنے کی آواز۔ لکھائی۔ گفتگو کی نرم آواز۔
 نَمَانِمُ:
 النَّمَمُ: چغل خوری۔
 النَّمَمُ: چغل خور۔
 النَّمَّاءُ وَالنَّمَا: چھوٹی چھوٹی جوئیں۔
 النَّمَرُ (ن): نَمْرًا فِي النَّجْلِ: پہاڑ پر چڑھنا۔
 النَّمْرُ (س): نَمْرًا الرَّجُلُ: غضبناک و بدخلق ہونا۔
 النَّحَابُ: بادل کا چیتے کے رنگ کا ہونا۔
 النَّمْرُ وَتَمَمَّرُ: غضبناک ہونا۔ بدخلق ہونا۔
 النَّمْرُ وَجَهَةٌ تَمِيمٌ: ترش رو کر دینا۔
 النَّمْرُ: صاف پانی پانا۔
 النَّمْرُ: عادت یا رنگ میں چیتے کے مشابہ ہونا۔
 بَسْفَلَانٌ: بگڑنا۔ خفا ہونا۔ دھمکی دینا۔

دھمکی دینے میں آواز بلند کرنا۔
 النَّامِرَةُ وَالنَّمُورَةُ: بھیڑ یا وغیرہ شکار کرنے کے لئے ایک حلقہ دار لوہا جس میں گوشت لگا کر شکار کرتے ہیں۔
 النَّامُورُ: خون۔
 النَّمِيرُ وَالنَّمْرُ وَالنَّمْرُ: چیتا اور اس کی کنیت أَبُو الْأَبْرَدِ اور اَبُو الْأَسْوَدِ ہے اور ان کے علاوہ اور بھی کنیتیں ہیں۔ نَجَّ النَّمْرُ وَالنَّمَارُ وَنَمْرٌ وَنَمَارٌ وَنَمَارَةٌ وَنَمُورٌ وَنَمُورَةٌ وَنَمْرٌ وَنَمْرٌ: کہا جاتا ہے "الْبَسَنُ فَلَانٌ يَفْلَانُ جِلْدَةَ النَّمْرِ" فلاں فلاں سے بگڑ گیا اور خفا ہوا۔
 النَّمِرُ: صاف پانی۔ خالص حسب۔ بہت مین السَّمَاءِ: زود ہضم پانی شیریں ہو یا نہ ہو۔ نَجَّ النَّمَارُ.
 النَّمْرَةُ: داغ۔ کہا جاتا ہے "بِهِ نَمْرَةٌ مِنْ غَيْرِ لَوْنِهِ" نَجَّ نَمْرٌ.
 النَّمْرَةُ: النَّمْرُ: کاموٹ۔ مادہ چیتا۔ بادل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو قریب قریب ہوں۔
 النَّمْرَةُ: بھیڑیے کو شکار کرنے کے لئے حلقہ دار لوہا جس میں گوشت لگا کر شکار کرتے ہیں۔ چتکیرا رنگ۔ دھاری دار چادر۔ اُون کی چادر جس میں سیاہ و سفید دھاریاں ہوں۔ نَجَّ نَمَارٌ.
 النَّمِيرُ: صاف پانی۔ خالص حسب۔ کہا جاتا ہے مَاءٌ نَمِيرٌ وَحَسَبٌ نَمِيرٌ: بہت۔ مین السَّمَاءِ: پانی جو گوارا ہو چاہے بیٹھا ہو یا نہ ہو۔
 النَّمْرُ: سیاہ و سفید داغ والا۔ مین النَّخِيلِ وَالنَّمْعَمُ: داغ دار اور ان بادلوں کو بھی کہتے ہیں جو مختلف رنگ کے ہوں۔ مَوْتٌ نَمْرَاءٌ نَجَّ نَمْرٌ اور کہا جاتا ہے "أَسَدٌ أَنْمَرٌ" وہ شیر جس میں نیلا پن اور سیاہی ہو۔
 طَيْرٌ فَنَمْرٌ: کالے کالے نقطے والا پرند۔
 النَّمْرُوقُ وَالنَّمْرُوقَةُ وَالنَّمْرُوقَةُ وَالنَّمْرُوقَةُ: چھوٹا نکیر۔ زین کے

پھینڈالنے کا گدیا۔ النَّمْرُوقَةُ: پختے پختے بادل۔
 النَّمَسُ (ض): نَمَسًا الْمِرُّ: مجید چھپانا۔
 الرَّجُلُ: چپکے چپکے بات کرنا۔ مین الْقَوْمِ: فساد اُلنا۔ بگڑنا۔
 النَّمَسُ (س): نَمَسًا الشَّمْنُ وَنَحْلٌ طَيِّبٌ وَذَخْنٌ: بھی خوشبو اور تیل کا خراب ہونا۔ بگڑنا۔ صفت نَمَسٌ.
 نَمَسَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ: مخلص کرنا۔ غلط ملط کرنا۔
 الشَّمْرُ: بالوں کا تیل لگنے سے میلا کھینچا ہونا۔ الشَّمْنُ او النَّجْبُنُ: بھی یا بجز کر بدبودار ہونا۔ صفت فَنَمَسٌ.
 نَمَسَ مَنَامَةً الصَّائِدُ: شکاری کا گھات میں بیٹھنا۔
 فَلَانًا: چپکے چپکے بات کرنا۔
 أَنْمَسَ بَيْنَ الْقَوْمِ: فساد اُلنا۔ بگڑنا۔
 تَمَسَّ الْأَمْرُ: مخلص ہونا۔ غلط ملط ہونا۔
 الصَّائِدُ: شکاری کا گھات میں بیٹھنے کی جگہ بنانا۔
 النَّمَسُ النَّمَسًا الرَّجُلُ: چھپنا۔ فی الشَّمْنِ: داخل ہونا۔
 النَّمَامُوسُ: رازدار۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ نَمَامُوسٌ الْأَمِيرُ" فلاں امیر کا رازدار ہے۔ وحی۔ حاذق۔ چھوٹا۔ چغل خور۔ شکاری کے گھات کی جگہ راہب کی کوٹھری۔ جال۔ مکرو فریب۔ حیلہ نہانی۔ چیونٹی کی شکل کا ایک میٹلا جانور۔ شیر کی جھاڑی نَجَّ نَمَامِيسُ.
 النَّمَامُوسُ الْأَكْبَرُ: حضرت جبرئیل علیہ السلام کا لقب (ذخیل)
 النَّمَامُوسَةُ: شیر کی جھاڑی۔ مچھر۔
 النَّمَامُوسِيَّةُ: مچھروانی (ذخیل)
 النَّمَسُ: چھوٹی چھوٹی ناگوں اور لمبی دم کا مٹی کے برابر ایک جانور جو سانپ اور چوہے وغیرہ کا شکار کرتا ہے اور اس کی بہت قسمیں ہیں۔ نَجَّ نَمَامُوسِ.
 النَّمَسُ: بھی خوشبو کی خرابی۔ دودھ یا چکنائی کی بو۔
 النَّمَسَةُ: بد بو۔

وسط۔	لئے پیشانی کے بال کو پکڑنا۔	النَّمَّاسُ: چغل خور۔
النَّمَقَةُ: بدبو۔	النَّمَّاصُ: سوئی کا دھاگا۔	الانَّمَسُ: ثیالا۔ مَوْنَثُ نَمَّاءِ: ج نَمَّسُ۔
ثَبُوبٌ نَمِيقٌ وَمُنَمَّقٌ: منقوش کپڑا۔ وُعْدَاوٌ قَوْلٌ مُنَمَّقٌ: بناوٹی وعدہ یا گفتگو۔	النَّمَّاصُ: مہینہ۔ ج نَمَّصٌ وَانْمِصَّةٌ۔	السُّنَّابِسُ: چپکے چپکے بات کرنے والا۔
نَمَلٌ (ن) نَمَلًا وَنَمِیلٌ (س) نَمَلًا وَانْمَلٌ: چغل خوری کرنا۔ نَمَلٌ وَنَمِیلٌ فِی الشَّجَرِ: درخت پر چڑھنا۔	چھوٹے چھوٹے پر۔ ابتدائی نباتات۔ ایک قسم کی نرم گھاس جس سے سرپوش وغیرہ بناتے ہیں۔	گھات کی جگہ میں داخل ہونے والا۔
نَمَلَتْ (س) نَمَلًا يَذُه: ہاتھ کا سُن ہونا۔	النَّمِیصُ: اکھیڑا ہوا..... مِنَ النَّبْتِ: وہ گھاس جس کو جانور چرے۔ یا وہ گھاس جو چرنے کے بعد پھر نکل آئے۔	نَمَّسَاوِيٌّ: آسٹریا کا باشندہ (دخیل)۔
تَنَمَّلُ الْقَوْمُ: حرکت کرنا اور بعض کا بعض میں داخل ہونا۔	النَّمِصُ وَالنَّمِصَا: موچنا۔	نَمَشَ (ن) نَمَّشًا: چغل خوری کرنا۔
النَّمِیلُ: قانا۔ چغل خور۔	نَمَطٌ تَنْمِيطًا بِفُلَانٍ الشَّيْءِ وَعَلَى الشَّيْءِ: راہنمائی کرنا۔	جھوٹ بولنا..... السَّكَّالَمُ: جھوٹی بات بنانا
النَّمِیلةُ النَّامِیلُ: کاموٹ عام راستہ۔	النَّمَطُ لَهُ الْعَطَاءُ: کم دینا۔ السَّجَرَاذُ الْأَرْضُ: کھا کے سب صاف کرنا۔ مِنَ الْأَرْضِ: بے ہودہ لوگوں کی طرح کچھ اٹھانا۔
النَّمَلُ وَالنَّمَلُ: چیونٹی۔ واحِدَةُ النَّمَلِ وَنَمَلَةٌ (مذکر و مؤنث) ج نَمَالُ النَّمَلِ: پہلو کی پھنسیاں۔	النَّمَطُ: ایک قسم کی چادر۔ نوکرے کے مانند ایک برتن۔ طریقہ۔ روش۔ نوع۔ کہا جاتا ہے "هَذَا مِنْ نَمَطِ هَذَا" یہ اس کی قسم سے ہے "وَمَا عِنْدَهُ نَمَطٌ مِنَ الْعِلْمِ" اسے کسی قسم کا علم نہیں۔	نَمَّشَهُ (ض) نَمَّشًا: منقش کرنا۔
النَّمِیلُ: چغل خور۔ بہت چیونٹیوں والی جگہ۔ کہا جاتا ہے "مَكَانٌ نَمِیلٌ وَ أَرْضٌ نَمِیلةٌ" اور کہا جاتا ہے "فَرَسٌ نَمِیلٌ او نَمِیلُ الْقَوَائِمِ" گھوڑا جو کلیں کرنے کی وجہ سے ایک جگہ قائم نہ رہے "وَجَمَلٌ نَمِیلٌ او نَمِیلُ الْأَصَابِعِ" ہر کام میں پھر تیار مرد۔	النَّمَطُ: ایک قسم کا اونی کپڑا جو ہوج پر ڈالا جاتا ہے۔ ج انْمَاطٌ وَنِمَاطٌ اور نسبت کے لئے انْمَاطِيٌّ وَنَمَطِيٌّ۔ النَّمَطُ: لوگوں کی جماعت کرنا کا معاملہ ایک ہو۔	نَمَشَ (س) نَمَّشًا: داغ دار ہونا۔ دھاری دار ہونا۔ صفت انْمَشَ وَنَمَشَ۔
النَّمِیلةُ: جھوٹ۔ جانور کے کھر کی پھنسی۔ پہلو کی پھنسیاں۔ ایک قسم کی پھنسی جس میں سوزش ہوتی ہے اور جو جگہ بدلتی رہتی ہے۔	النَّمَطُ: ایک قسم کا اونی کپڑا جو ہوج پر ڈالا جاتا ہے۔ ج انْمَاطٌ وَنِمَاطٌ اور نسبت کے لئے انْمَاطِيٌّ وَنَمَطِيٌّ۔ النَّمَطُ: لوگوں کی جماعت کرنا کا معاملہ ایک ہو۔	نَمَّشَ فِي أَذْنِهِ: کان میں چپکے چپکے بات کہنا۔
النَّمِیلةُ: ہتھیاف النُّونِ: چغل خوری۔	النَّمَطُ: ایک قسم کا اونی کپڑا جو ہوج پر ڈالا جاتا ہے۔ ج انْمَاطٌ وَنِمَاطٌ اور نسبت کے لئے انْمَاطِيٌّ وَنَمَطِيٌّ۔ النَّمَطُ: لوگوں کی جماعت کرنا کا معاملہ ایک ہو۔	انْمَشَ الرَّجُلُ: چغل خوری کرنا اور کہا جاتا ہے "انْمَشَ بَيْنَهُمْ" یعنی اس نے ان کے درمیان فساد ڈالا۔
النَّمِیلةُ: کسی چیز پر اوپر سے جھانکنا۔	النَّمَطُ: ایک قسم کا اونی کپڑا جو ہوج پر ڈالا جاتا ہے۔ ج انْمَاطٌ وَنِمَاطٌ اور نسبت کے لئے انْمَاطِيٌّ وَنَمَطِيٌّ۔ النَّمَطُ: لوگوں کی جماعت کرنا کا معاملہ ایک ہو۔	النَّمَشُ: موص۔ چکنی چیز کی گفتگو۔
النَّمِیلةُ: چغل خور۔	النَّمَطُ: ایک قسم کا اونی کپڑا جو ہوج پر ڈالا جاتا ہے۔ ج انْمَاطٌ وَنِمَاطٌ اور نسبت کے لئے انْمَاطِيٌّ وَنَمَطِيٌّ۔ النَّمَطُ: لوگوں کی جماعت کرنا کا معاملہ ایک ہو۔	النَّمَشُ: موص۔ داغ۔ دھاری۔ نقش و نگار کے خطوط۔
النَّمِیلةُ: تسع لغات بشابث الهمزة والميم: سرانگشت اور بقول بعض انگلی کا اوپر کا پورا۔ ج انْمِیلٌ وَانْمِیلاتٌ (بشابث الحرفین)	النَّمَطُ: ایک قسم کا اونی کپڑا جو ہوج پر ڈالا جاتا ہے۔ ج انْمَاطٌ وَنِمَاطٌ اور نسبت کے لئے انْمَاطِيٌّ وَنَمَطِيٌّ۔ النَّمَطُ: لوگوں کی جماعت کرنا کا معاملہ ایک ہو۔	النَّمَشُ: داغ دار۔ دھاری دار۔ سَيْفٌ نَمِشٌ: دھاری دار کھوار۔ وَجْهٌ نَمِشٌ: داغ دار چہرہ۔
النَّمِیلةُ مِنَ النِّسَاءِ: ایک جگہ پر قرآن لینے والی عورت۔	النَّمَطُ: ایک قسم کا اونی کپڑا جو ہوج پر ڈالا جاتا ہے۔ ج انْمَاطٌ وَنِمَاطٌ اور نسبت کے لئے انْمَاطِيٌّ وَنَمَطِيٌّ۔ النَّمَطُ: لوگوں کی جماعت کرنا کا معاملہ ایک ہو۔	النَّمَشُ: داغ دار۔ مَوْنَثُ نَمَّاءِ: ج نَمَّشٌ عَنَزَ نَمَّاءً: داغ دار بکری۔
	النَّمَطُ: ایک قسم کا اونی کپڑا جو ہوج پر ڈالا جاتا ہے۔ ج انْمَاطٌ وَنِمَاطٌ اور نسبت کے لئے انْمَاطِيٌّ وَنَمَطِيٌّ۔ النَّمَطُ: لوگوں کی جماعت کرنا کا معاملہ ایک ہو۔	رَجُلٌ مُنَمِّشٌ: فساد آمیز مرد۔
	النَّمَطُ: ایک قسم کا اونی کپڑا جو ہوج پر ڈالا جاتا ہے۔ ج انْمَاطٌ وَنِمَاطٌ اور نسبت کے لئے انْمَاطِيٌّ وَنَمَطِيٌّ۔ النَّمَطُ: لوگوں کی جماعت کرنا کا معاملہ ایک ہو۔	نَمَّصَ (ن) نَمَّصًا. الشَّعْرُ وَ النَّبْتُ: بال یا نباتات اکھیڑنا۔
	النَّمَطُ: ایک قسم کا اونی کپڑا جو ہوج پر ڈالا جاتا ہے۔ ج انْمَاطٌ وَنِمَاطٌ اور نسبت کے لئے انْمَاطِيٌّ وَنَمَطِيٌّ۔ النَّمَطُ: لوگوں کی جماعت کرنا کا معاملہ ایک ہو۔	نَمَّصَ تَنْمِیصًا وَتَمَّصَا الشَّعْرُ: بال اکھیڑنا۔
	النَّمَطُ: ایک قسم کا اونی کپڑا جو ہوج پر ڈالا جاتا ہے۔ ج انْمَاطٌ وَنِمَاطٌ اور نسبت کے لئے انْمَاطِيٌّ وَنَمَطِيٌّ۔ النَّمَطُ: لوگوں کی جماعت کرنا کا معاملہ ایک ہو۔	انْمَصَ النَّبْتُ: جانور کے چرنے کے بعد دوبارہ اگانا۔
	النَّمَطُ: ایک قسم کا اونی کپڑا جو ہوج پر ڈالا جاتا ہے۔ ج انْمَاطٌ وَنِمَاطٌ اور نسبت کے لئے انْمَاطِيٌّ وَنَمَطِيٌّ۔ النَّمَطُ: لوگوں کی جماعت کرنا کا معاملہ ایک ہو۔	تَنَمَّصَتِ الْمَاشِیةُ: مویشی کا ابتدائی روئیدگی کو چرنا..... الْمَرْأَةُ: اکھیڑنے کے
	النَّمَطُ: ایک قسم کا اونی کپڑا جو ہوج پر ڈالا جاتا ہے۔ ج انْمَاطٌ وَنِمَاطٌ اور نسبت کے لئے انْمَاطِيٌّ وَنَمَطِيٌّ۔ النَّمَطُ: لوگوں کی جماعت کرنا کا معاملہ ایک ہو۔	

<p>النَّمَاةُ: چھوٹی جوں۔ نَج نَمَى نَهَسًا يَنْهَسُ نَهْسًا الْإِنْسَاءُ: بھرتا اور کہا جاتا ہے شَرِبَ فَلَانٌ حَتَّى نَهَسَ: فلاں نے پیایا تک کہ سیر ہو گیا۔</p>	<p>نسبت کرنا..... الرَّجُلُ إِلَى أَبِيهِ: نسبت کرنا۔ نَسَبَ الْإِبِلُ: موٹا ہونا۔ گرمی میں گھاس کی تلاش میں دور تک جانا..... الصَّيْدُ: شکار کا زخم لگ جانے کے بدنگاہ سے اوجھل ہونا اور مرجانا۔</p>	<p>المُصَمَّلُ وَالنَّسِيلُ: چغل خور۔ الْمُتَمَلُّ وَالْمُنْمَلُّ: لکھا ہوا۔ گھجان لکھا ہوا۔ الْمَنْمُولُ: زبان۔ طَعَامٌ مَنْمُولٌ: کھانا جس میں چبوتھیاں پڑ گئی ہوں۔</p>
<p>نَهَيْ يَنْهَى وَنَهَوُ يَنْهَوُ نَهْأً وَنَهَاءً ة وَنَهْوَةً ا وَنَهَاوَةً الْلُحْمِ: گوشت کا کچا رہنا۔ صفت تھی۔ أَنْهَسَ إِتْنَاءَ الْلُحْمِ: گوشت کچا رکھنا..... الْأَمْرُ: مضبوط نہ کرنا۔ النَّاهِي: جگہ سیر۔ سیراب۔ النُّهْوَةُ: چغل۔</p>	<p>نَحَى تَنْحِيَةُ الشَّيْءِ: بڑھانا..... النَّارُ: آگ کو خوب بھڑکانا..... الْخَدِيثُ إِلَى فَلَانٍ: نسبت کرنا۔ فساد انگیزی کے لحاظ سے پہنچانا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ يُنَمِّي أَحَادِيثَ النَّاسِ" فلاں لوگوں کی باتوں کو فساد انگیزی کے لئے پہنچاتا ہے۔</p>	<p>نَاعِلٌ نَاعِلَةٌ: بھڑی بڑے ہوئے کی طرح چلنا ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ يَنْمِلُ فِي قَيْدِهِ" نَسْنَمَةٌ: آراستہ کرنا۔ مزین کرنا۔ نقش کرنا۔ نَسَمَتِ الرَّيْحُ الرُّمْلَ وَالْمَاءَ: دھاری ڈالنا۔ لہر ڈالنا۔ نَسَمَتِ كِصَابَهُ: گھجان ڈالنا۔</p>
<p>نَهَبَ (ف ن) وَنَهَبَ (س) نَهَسًا الْغَنِيمَةَ: مال غنیمت لوٹنا..... الْقَوْمُ فَلَانًا: سخت ست کہنا۔ نَهَبَهُ الْكَلْبُ: کتے کا بڑی پرکٹ لینا۔ نَاهَبَهُ مَنَاهَبَةً: دوڑنے میں مقابلہ کرنا۔ نَاهَبَ الْقَوْمَ فَلَانًا: سخت ست کہنا..... الْغَنِيمَةُ: مال غنیمت لوٹنا۔ أَنْهَبَ الرَّجُلُ مَالَهُ: لوٹنے کا موقع دینا۔ أَنْهَبَهُ الْمَالُ: لٹا دینا۔</p>	<p>أَضَى إِتْمَاءُ الشَّيْءِ: زیادہ کرنا۔ بڑھانا۔ أَضَى: بڑھنا..... الْخَدِيثُ: چغل خوری کے لحاظ سے پھیلا نا..... الصَّيْدُ: شکار کا زخم لگ جانے کے بعد نگاہ سے اوجھل ہو کے مرجانا اور اس کے مقابل میں "أَضَى" ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ تیر گٹنے کے بعد فوراً مر جائے اور اسی سے عرب کا قول ہے "مُكَلِّ مَا أَضَمْتِ وَذَغَ مَا انْمَيْتِ"..... أَمَى الرَّاعِي الْإِبِلَ: چرواہے کا اونٹوں کو دور تک لے جانا۔ اِنْمَاهَا الْكَلْبُ: گھاس کا اونٹوں کو موٹا کرنا۔ أَمَى الْكُرْمُ: انگوڑی تیل میں گچھے دار شاخ ہونا۔ اِنْمَيْتُ فَلَانٍ: کسی کی معمولی غلطی کو چھوڑ دینا تاکہ بڑی غلطی میں بتلا ہو جائے اور پھر اُس کے لئے کوئی عذر باقی نہ رہے۔</p>	<p>النَّجِيمُ وَالنَّمِيمُ: ریت پر کی دھاری۔ لہر۔ النَّمِيمَةُ: نقش والی کتاب پر باریک تصویر کسی کا فن۔ النَّمِيمُ وَالنَّمِيمُ: جوانوں کے ناخن پر کی سیدھی۔ واحِدٌ نَمِيمَةٌ وَنَمِيمَةٌ. النَّمِيمُ: مفتح۔ قَوْبٌ نَمِيمٌ: نقش کپڑا۔ بُنْتُ نَمِيمًا: بچھان جانا۔ کتاب نَمِيمٌ: نقش کتاب ناقہ نَمِيمَةٌ: موٹی اوتھی۔</p>
<p>نَمِيَةٌ (س) نَمِيَةٌ: حیرانی جیسی لاحق ہونا۔ صفت نامیہ و نیمیہ۔ نَمَا يَنْمُو نُمُوًا: زیادہ ہونا۔ بڑھنا۔ بلند ہونا الْخِصَابُ: سرخی یا سیاہی زائد ہونا..... الْخَدِيثُ إِلَى فَلَانٍ: نسبت کرنا۔ النَّمُوُ: بڑھاؤ زیادتی۔ النَّمُوَةُ: زیادتی۔</p>	<p>تَنْمَى تَنْمِيًا الشَّيْءُ: ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اور بلند ہونا۔ اِنْتَضَى اِنْتِزَاءً فَلَانٌ إِلَى أَبِيهِ: منسوب ہونا النَّسَائِي: ایک جگہ سے دوسری جگہ بلند ہونا۔ وَانْتَضَى فَلَانٌ فَوْقَ الْمَوَسَادَةِ: بلند ہونا۔ النَّمَامِيُّ: فانا۔ نجات پانے والا۔ النَّمَامِيَةُ: النَّاسِي: کامونٹ۔ بڑھنے کی طاقت مخلوق..... مِنْ الْإِبِلِ: موٹے اونٹ۔ نَمَامِيَةُ الْكُرْمِ: گچھے دار شاخ۔ نَج النَّمَامِي.</p>	<p>النَّمُوَةُ: زیادہ ہونا۔ بہت ہونا..... السَّعْرُ: بھاؤ گراں ہونا..... الْجَبْرُ فِي الْكِتَابِ: رودشائی کا لکھنے کے بعد چمک اُٹھنا..... الْخِصَابُ فِي الْيَدِ أَوْ الشَّعْرِ: سیاہی زیادہ ہونا..... الشَّيْءُ عَمَلِي الشَّيْءِ: کسی چیز سے بلند کرنا..... النَّارُ: آگ کو خوب بھڑکانا..... الرَّجُلُ: موٹا ہونا..... الْمَاءُ: پانی کا پڑھنا الْخَدِيثُ إِلَى فَلَانٍ: کسی کی جانب</p>
<p>النَّمِيَةُ وَالنَّمِيَةُ وَالنَّمِيَةُ: لوٹ: لوٹی ہوئی چیز۔ النَّمَابُ: بہت لوٹنے والا۔ الْمَنْهَبُ: دوڑ میں فوقیت لے جانا والا گھوڑا۔ الْمَنْهَبُ: مصدر ميمي بمعنى انتهاب۔ لوٹ کی</p>	<p>نَمِيَةٌ (س) نَمِيَةٌ: حیرانی جیسی لاحق ہونا۔ صفت نامیہ و نیمیہ۔ نَمَا يَنْمُو نُمُوًا: زیادہ ہونا۔ بڑھنا۔ بلند ہونا الْخِصَابُ: سرخی یا سیاہی زائد ہونا..... الْخَدِيثُ إِلَى فَلَانٍ: نسبت کرنا۔ النَّمُوُ: بڑھاؤ زیادتی۔ النَّمُوَةُ: زیادتی۔</p>	<p>النَّمُوَةُ: زیادہ ہونا۔ بہت ہونا..... السَّعْرُ: بھاؤ گراں ہونا..... الْجَبْرُ فِي الْكِتَابِ: رودشائی کا لکھنے کے بعد چمک اُٹھنا..... الْخِصَابُ فِي الْيَدِ أَوْ الشَّعْرِ: سیاہی زیادہ ہونا..... الشَّيْءُ عَمَلِي الشَّيْءِ: کسی چیز سے بلند کرنا..... النَّارُ: آگ کو خوب بھڑکانا..... الرَّجُلُ: موٹا ہونا..... الْمَاءُ: پانی کا پڑھنا الْخَدِيثُ إِلَى فَلَانٍ: کسی کی جانب</p>

<p>نَهَيْتِ الْمَرْءَةَ: ابھرے ہوئے پستان والی ہونا۔ صفت منہدہ۔</p>	<p>أَنْهَجَ الطَّرِيقَ أو الْأَمْرَ: راستہ یا معاملہ کا واضح ہونا ظاہر ہونا..... الطَّرِيقُ أو الْأَمْرُ:</p>	<p>جلد۔ الْمَنْهُوبُ: مفعول فوری مطلوب۔</p>
<p>نَاهِدَةٌ مُنَاهِدَةٌ: لڑائی میں کسی کا مقابلہ کرنا۔</p>	<p>رَاسْتَهُ یا مَعَامِلَهُ کو واضح کرنا۔ ظاہر کرنا.....</p>	<p>النَّهَابِيُّ وَالنَّهَابِيُّ: ہلاکتیں۔ زمین یا ریت کی بلند جگہیں اور بقول بعض نیلوں کے</p>
<p>أَنْهَدَ الْعَطِيَّةَ: عطیہ کو بڑھانا..... الْحَوْضُ أو الْأَنْعَاءُ: حوض یا برتن کو بھرتا یہاں تک کہ</p>	<p>الذَّابِيَّةُ: چوپایہ پر سوار ہو کر سانس چڑھانا..... فَلَانًا: سانس چڑھانا..... الشُّوبُ: کپڑے کو پرانا کرنا بوسیدہ کرنا..... الشُّوبُ: کپڑا پرانا ہونا یا کھنکی شروع ہونا۔</p>	<p>درمیان گڑھے۔ واحد نَهْرَةٌ وَنَهْرٌ وَنَهْرٌ وَنَهْرٌ. النَّهَابِيُّ: جنم اور کہا جاتا ہے "غشیی بہ النَّهَابِيُّ" اس نے اس کو سخت کام پر برا بھیجتے کیا۔</p>
<p>ہوئے پستان والی ہونا..... فَلَانًا: اٹھانا۔</p>	<p>إِنْتَهَجَ الرَّجُلُ: چلنا اور بقول بعض واضح راستہ تلاش کرنا..... الطَّرِيقُ: راستہ کو ظاہر کرنا۔</p>	<p>النَّهْرَةُ: لمبی لاغر عورت یا قریب بہ ہلاکت۔</p>
<p>تَنَاهَدَ الرَّجُلُ: ٹھنڈی سانس لینا۔</p>	<p>إِسْتَنْهَجَ: الطَّرِيقُ: راستہ کا واضح ہونا۔</p>	<p>النَّهْبُوعُ: ایک قسم کا پرندہ۔ ایک قسم کی لمبی تیز رفتار کستی جس کو دو بیج بھی کہتے ہیں۔ جو</p>
<p>تَنَاهَدَ الْقَوْمَ: برابر برابر نفع نکالنا تاکہ اس سے مشترک طور پر غلہ خریدیں اور جو نفع نکالا جائے اس کو الیہند کہتے ہیں۔ تَنَاهَدَ الْقَوْمَ الشَّيْءُ: آپس میں لین دین کرنا۔ تَنَاهَدُوا فِي الْحَرْبِ: لڑائی میں ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔</p>	<p>فَلَانٌ سَبِيلَ فَلَانٍ: پیروی کرنا۔ طَرِيقٌ نَاهِيَةٌ: واضح راستہ۔</p>	<p>معرّب ہے دونی کا۔</p>
<p>إِسْتَهْدَهُ: لڑائی میں اٹھنے کے لئے بلانا۔</p>	<p>السَّهَجُ: مصل۔ واضح راستہ۔ کہا جاتا ہے "طَرِيقٌ نَهْجٌ وَطَرِيقٌ نَهْجَةٌ وَنَهْجَاتٌ وَنَهْجٌ وَنَهْجٌ":</p>	<p>نَهَيْتِ الرَّجُلَ: عمر رسیدہ ہونا۔ لنگڑا ہونا اور لنگڑے بجو کی طرح چلنا۔</p>
<p>النَّهَادُ: قاصد۔ نَهْدَاءُ وَنَهْدَاءُ: ابھرے ہوئے پستان والی عورت۔ نَهْدَاءُ الْبَلْبُوحِ: شیر۔ غلام نَاهِدٌ: قریب البلوغ لڑکا۔</p>	<p>نَهْجُ الْبَلَاغَةِ: بلاغت کے واضح طریقے۔ ایک کتاب کا نام جس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خطبات "اقوال مکاتیب" نصح جمع کئے گئے ہیں۔</p>	<p>النَّهْبَلُ: عمر رسیدہ۔ کہا جاتا ہے "شَيْخٌ نَهْبَلٌ وَعَسْوَجٌ نَهْبَلَةٌ" عمر رسیدہ بڑھا۔ عمر رسیدہ بڑھیا۔</p>
<p>النَّهَادُ: مقدار۔ اندازہ۔ کہا جاتا ہے "هَذَا نَهَادٌ مَائِيَّةٌ" یہ مقدار سو کے ہے۔</p>	<p>النَّهْجُ وَالنَّهْجُ: بانپنا۔</p>	<p>النَّهْبَلَةُ: گرانباری کی چال۔ موٹی اونٹنی۔</p>
<p>السَّهْدُ: مصل۔ بلند چیز۔ شیر۔ کریم۔ عمدہ مضبوط گھوڑا۔ مسک۔ پستان۔ نَهْدُودُ</p>	<p>الْمَنْهَجُ وَالْمَنْهَجُ وَالْمَنْهَجُ: کشادہ راستہ نصح مباح۔</p>	<p>نَهَيْتِ (ض) نَهَيْتَا وَنَهَيْتَا الْأَسَدُ أو الْحِمَارُ أو الرَّجُلُ: شیر کا گوجنا۔ گدھے کا رینکنا۔ مرد کا آواز کرنا۔ نالہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "رَأَيْتُهُ يَنْهَيْتُ كَمَا يَنْهَيْتُ الْقِرْدُ" میں نے اس کو دیکھا کہ وہ اس طرح آواز نکال رہا تھا جیسے بندر نکالتا ہے۔</p>
<p>النَّهْدُ: نفع جو شرکاء سفر برابر نکالیں۔ کہا جاتا ہے "طَرِيقٌ نَهْدَةٌ مَعَ الْقَوْمِ" یعنی اس نے ان کی مدد کی۔</p>	<p>النَّهْدُ (ف) نَهْدُوا الشَّدَى: پستان کا ابھرنا نَهَيْتِ الْمَرْءَةَ: ابھرے ہوئے پستان والی ہونا۔ صفت نَاهِدٌ وَنَاهِدَةٌ..... الْقَرْبَةُ: مٹک کا بھرنے کے قریب ہونا..... نَهْدًا وَنَهْدًا لِلْعَدُوِّ وَآلِي الْعَدُوِّ: دشمن پر جلدی حملہ کرنا..... الْقَهْدِيَّةُ: ہدیہ کو بڑا سمجھنا یا بڑا کرنا۔</p>	<p>النَّهَاتُ: قاصد۔</p>
<p>النَّهْدَاءُ: ریت کا بلند ٹیلہ۔</p>	<p>نَهْدُ (ف) نَهْدًا: اٹھنا..... إِلَيْهِ: کھڑا ہونا۔ جیسے دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَنَهَدَ النَّاسَ لِيَسْأَلُوهُ" یعنی وہ مسجد میں داخل ہوا تو لوگ کھڑے ہو کر اس سے پوچھنے لگے۔</p>	<p>النَّهَاتُ: رینکنے والا..... وَالْمَنْهَيْتُ) شِير- نَهَيْتِ فَلَانٌ عَلَيْنَا: جھوٹ بانہنا۔</p>
<p>خَوْضٌ أو إِنَاءٌ نَهْدَانٌ: بھرا ہوا حوض یا برتن جو ابھی چھلکتا نہ ہو۔</p>	<p>نَهْدُ (ف) نَهَيْتِ الرَّجُلُ: ہانپنا۔ دمدم والا ہونا۔</p>	<p>نَهَيْتِ (ف) نَهَيْتِ الشُّوبُ: کپڑے کو بوسیدہ ہونا۔ صفت نَهْجُ.</p>
<p>النَّهْيَةُ: گاڑھا مسک۔</p>	<p>نَهْدُ (ف) نَهْدًا: اٹھنا..... إِلَيْهِ: کھڑا ہونا۔ جیسے دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَنَهَدَ النَّاسَ لِيَسْأَلُوهُ" یعنی وہ مسجد میں داخل ہوا تو لوگ کھڑے ہو کر اس سے پوچھنے لگے۔</p>	<p>نَهَيْتِ (ف) نَهَيْتِ الشُّوبُ: کپڑے کو پرانا کرنا۔ بوسیدہ کرنا..... الْأَمْرُ: واضح کرنا۔ ظاہر کرنا..... الطَّرِيقُ: راستہ میں چلنا۔</p>
<p>النَّهْدَةُ: گاڑھا مسک۔ ایک قسم کا کھانا جو اندرائن کے بیج کے مغز کو آٹے سے ملا کر تیار کیا جاتا ہے۔</p>	<p>نَهْدُ (ف) نَهْدًا: اٹھنا..... إِلَيْهِ: کھڑا ہونا۔ جیسے دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَنَهَدَ النَّاسَ لِيَسْأَلُوهُ" یعنی وہ مسجد میں داخل ہوا تو لوگ کھڑے ہو کر اس سے پوچھنے لگے۔</p>	<p>نَهَيْتِ (ف) نَهَيْتِ الشُّوبُ: کپڑے کو پرانا کرنا۔ بوسیدہ کرنا..... الْأَمْرُ: واضح کرنا۔ ظاہر کرنا..... الطَّرِيقُ: راستہ میں چلنا۔</p>
<p>النَّهْدَةُ: گاڑھا مسک۔</p>	<p>نَهْدُ (ف) نَهْدًا: اٹھنا..... إِلَيْهِ: کھڑا ہونا۔ جیسے دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَنَهَدَ النَّاسَ لِيَسْأَلُوهُ" یعنی وہ مسجد میں داخل ہوا تو لوگ کھڑے ہو کر اس سے پوچھنے لگے۔</p>	<p>نَهَيْتِ (ف) نَهَيْتِ الشُّوبُ: کپڑے کو پرانا کرنا۔ بوسیدہ کرنا..... الْأَمْرُ: واضح کرنا۔ ظاہر کرنا..... الطَّرِيقُ: راستہ میں چلنا۔</p>
<p>النَّهْدَةُ: گاڑھا مسک۔</p>	<p>نَهْدُ (ف) نَهْدًا: اٹھنا..... إِلَيْهِ: کھڑا ہونا۔ جیسے دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَنَهَدَ النَّاسَ لِيَسْأَلُوهُ" یعنی وہ مسجد میں داخل ہوا تو لوگ کھڑے ہو کر اس سے پوچھنے لگے۔</p>	<p>نَهَيْتِ (ف) نَهَيْتِ الشُّوبُ: کپڑے کو پرانا کرنا۔ بوسیدہ کرنا..... الْأَمْرُ: واضح کرنا۔ ظاہر کرنا..... الطَّرِيقُ: راستہ میں چلنا۔</p>
<p>النَّهْدَةُ: گاڑھا مسک۔</p>	<p>نَهْدُ (ف) نَهْدًا: اٹھنا..... إِلَيْهِ: کھڑا ہونا۔ جیسے دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَنَهَدَ النَّاسَ لِيَسْأَلُوهُ" یعنی وہ مسجد میں داخل ہوا تو لوگ کھڑے ہو کر اس سے پوچھنے لگے۔</p>	<p>نَهَيْتِ (ف) نَهَيْتِ الشُّوبُ: کپڑے کو پرانا کرنا۔ بوسیدہ کرنا..... الْأَمْرُ: واضح کرنا۔ ظاہر کرنا..... الطَّرِيقُ: راستہ میں چلنا۔</p>
<p>نَهْرُ (ف) نَهْرًا الدَّمُ: خون کا زور سے بہنا</p>	<p>نَهْدُ (ف) نَهْدًا: اٹھنا..... إِلَيْهِ: کھڑا ہونا۔ جیسے دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَنَهَدَ النَّاسَ لِيَسْأَلُوهُ" یعنی وہ مسجد میں داخل ہوا تو لوگ کھڑے ہو کر اس سے پوچھنے لگے۔</p>	<p>نَهَيْتِ (ف) نَهَيْتِ الشُّوبُ: کپڑے کو پرانا کرنا۔ بوسیدہ کرنا..... الْأَمْرُ: واضح کرنا۔ ظاہر کرنا..... الطَّرِيقُ: راستہ میں چلنا۔</p>

<p>انْتَهَرَ الْفَرْصَةَ: غنیمت جاننا اور سبقت کرتے ہوئے اٹھنا..... الشئ: قبول کرنا اور لینے کی جلدی کرنا..... فِي الضَّحْك: بہت زور سے ہنسا۔</p>	<p>الانْتَهْرَانِ مِنْ مَنَازِلِ الْقَمَرِ: چاند کے منازل میں عسواء اور سَمَاک نامی دو ستارے۔</p>	<p>..... الْمَاءُ: پانی کا بہنا اور نہر بنالینا..... النَّهْرُ: نہر کھودنا۔ نہر جاری کرنا..... السَّائِلُ: سائل کو ڈانٹنا..... ونَهْرٌ (س) نَهْرًا الخافِرُ: کھودنے والے کا پانی تک پہنچنا کہا جاتا ہے "خَفَرْتُ الْبِئْرَ حَتَّى نَهَرْتُ" میں نے کنواں کھودا یہاں تک کہ پانی تک پہنچ گیا۔</p>
<p>النَّاهِرُ: فَا- نَاهِرُ الْقَوْمِ: قوم کا سردار۔ قوم کا چودھری۔</p>	<p>النَّاهُورُ: بادل۔ الْمَنْهَرُ: پانی بننے کی جگہ جس کو خود پانی نے بنا لیا ہو۔ قلعہ سے پانی باہر نکلنے کی نالی۔</p>	<p>النَّهْرُ النَّهْرُ: نہر کو وسیع کرنا۔ چوڑا کرنا (اور یہ نیزہ کے زخم کے لئے بھی آتا ہے)..... السَّمُّ: نکالنا۔ بہانا۔ السَّمُّ: خون کا بہنا..... العِرْفُ: رگ سے خون کا نہر نکالنا..... فَلَانٌ: بھلائی کو نہ پہنچانا..... فِي الْعَدُوِّ: تاخیر کرنا۔ سستی کرنا..... الرَّجُلُ: ون کرنا..... الْبَطْنُ: پیٹ چلنا..... الخافِرُ: کھودنے والے کا پانی تک پہنچانا۔</p>
<p>النَّهْزُ وَالْبِهْزُ: قدر۔ اندازہ۔ کہا جاتا ہے "هَذَا نَهْزٌ ذَاكٌ" یہ اس کے مقدار ہے۔ النَّهْزُ: مصل۔ ہاتھ میں لینا۔ لینے کے لئے اٹھنا اور کہا جاتا ہے "نَهْزَةٌ كَذَا" یعنی اس کی مقدار اتنی ہے۔</p>	<p>السَّنْهْرَةُ: لوگوں کے گھروں کے درمیان کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "أَسَامَ ذَارِهِمْ مَنَهْرَةٌ" ان کے گھروں کے سامنے کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ ہے۔</p>	<p>النَّهْرُ النَّهْرُ: تاخیر کرنا۔ سستی کرنا..... الرَّجُلُ: ون کرنا..... الْبَطْنُ: پیٹ چلنا..... الخافِرُ: کھودنے والے کا پانی تک پہنچانا۔</p>
<p>النَّهْزُ: شیر۔ النَّهْزُ: اسم مبالغہ۔ چلنے میں سینہ نکالنے والا گدھا۔</p>	<p>نَهْزَةٌ (ف) نَهْزًا: دفع کرنا اور مارنا۔ نَهْزٌ رَأْسُهُ: سر ہلانا..... الشئ: قریب ہونا..... فَلَانٌ: کچھ لینے کے لئے اٹھنا..... الْقَصِيبُ: ضَرْعُ أَيْمِهِ: اونٹ کے بچے کا ماں کے صحن پر مگر مارنا..... الدَّابَّةُ: چوپایہ کا سینہ نکال کر چلنا..... الدَّابَّةُ بِرَأْسِهَا: چوپایہ کا اپنے آپ سے دفع کرنا اور جب دودھ چھڑانے کے قریب ہو تو کہا جاتا ہے "نَهْزٌ لِلْفِطَامِ" صفت مذکر ناساھز اور صفت مؤنث نَسَاھزَةٌ: نَهْزٌ بِالذَّلْوِ لِي الْبِئْرِ: ڈول کو کنوئیں میں بھر جانے کے لئے ہلانا..... الدَّلْوُ مِنَ الْبِئْرِ: ڈول کو کنوئیں سے نکالنا..... نَهْزُ الرَّجُلِ: تقے کرنے کے لئے گردن اٹھانا اور سینہ نکالنا..... فَيَسَا: پیپ پھینکنا اور کہا جاتا ہے "نَهْزُ تَيْسِي إِلَيْكَ حَاجَةً" مجھے ضرورت تمہارے پاس لے آئی۔</p>	<p>النَّهْرُ النَّهْرُ: سائل کو ڈانٹنا..... العِرْفُ: رگ سے خون نہر نکالنا..... بَطْنُهُ: پیٹ چلنا۔ النَّهْرُ النَّهْرُ: نہر کا اپنے بننے کے لئے مضبوط جگہ بنانا..... الشئ: وسیع و کشادہ ہونا اور ہر وہ چیز جو بہت ہو اور بہہ پڑے اس کے لئے اسْتَهْرًا استعمال کرتے ہیں۔</p>
<p>النَّهْزَةُ مِنَ الْبِئْرِ: کنوئیں کا من۔ النَّهْزَةُ: مصل۔ مسابقت۔ نَهْسٌ (ف) وَنَهْسٌ (س) نَهْسًا الْبُهْمُ: گوشت کو اگلے دانتوں سے نوچنا۔ نَهَسَتْ الْحَيَّةُ فَلَانًا: سانپ کا ڈسنا۔ نَهَسَ الْكَلْبُ فَلَانًا: کتے کا کسی کو نوچ لینا۔</p>	<p>النَّهْسُ وَالنَّهْسُ: نلورے کے مانند ایک پرنده جو ہمیشہ اپنی ذم ہلاتا رہتا ہے اور چڑیوں کا شکار کرتا ہے۔ ج نَهْسَانِ.</p>	<p>النَّهْرُ النَّهْرُ: سائل کو ڈانٹنا..... العِرْفُ: رگ سے خون نہر نکالنا..... بَطْنُهُ: پیٹ چلنا۔ النَّهْرُ النَّهْرُ: نہر کا اپنے بننے کے لئے مضبوط جگہ بنانا..... الشئ: وسیع و کشادہ ہونا اور ہر وہ چیز جو بہت ہو اور بہہ پڑے اس کے لئے اسْتَهْرًا استعمال کرتے ہیں۔</p>
<p>النَّهْسُ وَالنَّهْسُ: نلورے کے مانند ایک پرنده جو ہمیشہ اپنی ذم ہلاتا رہتا ہے اور چڑیوں کا شکار کرتا ہے۔ ج نَهْسَانِ.</p>	<p>النَّهْسُ وَالنَّهْسُ: نلورے کے مانند ایک پرنده جو ہمیشہ اپنی ذم ہلاتا رہتا ہے اور چڑیوں کا شکار کرتا ہے۔ ج نَهْسَانِ.</p>	<p>النَّهْرُ النَّهْرُ: سائل کو ڈانٹنا..... العِرْفُ: رگ سے خون نہر نکالنا..... بَطْنُهُ: پیٹ چلنا۔ النَّهْرُ النَّهْرُ: نہر کا اپنے بننے کے لئے مضبوط جگہ بنانا..... الشئ: وسیع و کشادہ ہونا اور ہر وہ چیز جو بہت ہو اور بہہ پڑے اس کے لئے اسْتَهْرًا استعمال کرتے ہیں۔</p>
<p>النَّهْسُ وَالنَّهْسُ: نلورے کے مانند ایک پرنده جو ہمیشہ اپنی ذم ہلاتا رہتا ہے اور چڑیوں کا شکار کرتا ہے۔ ج نَهْسَانِ.</p>	<p>النَّهْسُ وَالنَّهْسُ: نلورے کے مانند ایک پرنده جو ہمیشہ اپنی ذم ہلاتا رہتا ہے اور چڑیوں کا شکار کرتا ہے۔ ج نَهْسَانِ.</p>	<p>النَّهْرُ النَّهْرُ: سائل کو ڈانٹنا..... العِرْفُ: رگ سے خون نہر نکالنا..... بَطْنُهُ: پیٹ چلنا۔ النَّهْرُ النَّهْرُ: نہر کا اپنے بننے کے لئے مضبوط جگہ بنانا..... الشئ: وسیع و کشادہ ہونا اور ہر وہ چیز جو بہت ہو اور بہہ پڑے اس کے لئے اسْتَهْرًا استعمال کرتے ہیں۔</p>
<p>النَّهْسُ وَالنَّهْسُ: نلورے کے مانند ایک پرنده جو ہمیشہ اپنی ذم ہلاتا رہتا ہے اور چڑیوں کا شکار کرتا ہے۔ ج نَهْسَانِ.</p>	<p>النَّهْسُ وَالنَّهْسُ: نلورے کے مانند ایک پرنده جو ہمیشہ اپنی ذم ہلاتا رہتا ہے اور چڑیوں کا شکار کرتا ہے۔ ج نَهْسَانِ.</p>	<p>النَّهْرُ النَّهْرُ: سائل کو ڈانٹنا..... العِرْفُ: رگ سے خون نہر نکالنا..... بَطْنُهُ: پیٹ چلنا۔ النَّهْرُ النَّهْرُ: نہر کا اپنے بننے کے لئے مضبوط جگہ بنانا..... الشئ: وسیع و کشادہ ہونا اور ہر وہ چیز جو بہت ہو اور بہہ پڑے اس کے لئے اسْتَهْرًا استعمال کرتے ہیں۔</p>
<p>النَّهْسُ وَالنَّهْسُ: نلورے کے مانند ایک پرنده جو ہمیشہ اپنی ذم ہلاتا رہتا ہے اور چڑیوں کا شکار کرتا ہے۔ ج نَهْسَانِ.</p>	<p>النَّهْسُ وَالنَّهْسُ: نلورے کے مانند ایک پرنده جو ہمیشہ اپنی ذم ہلاتا رہتا ہے اور چڑیوں کا شکار کرتا ہے۔ ج نَهْسَانِ.</p>	<p>النَّهْرُ النَّهْرُ: سائل کو ڈانٹنا..... العِرْفُ: رگ سے خون نہر نکالنا..... بَطْنُهُ: پیٹ چلنا۔ النَّهْرُ النَّهْرُ: نہر کا اپنے بننے کے لئے مضبوط جگہ بنانا..... الشئ: وسیع و کشادہ ہونا اور ہر وہ چیز جو بہت ہو اور بہہ پڑے اس کے لئے اسْتَهْرًا استعمال کرتے ہیں۔</p>
<p>النَّهْسُ وَالنَّهْسُ: نلورے کے مانند ایک پرنده جو ہمیشہ اپنی ذم ہلاتا رہتا ہے اور چڑیوں کا شکار کرتا ہے۔ ج نَهْسَانِ.</p>	<p>النَّهْسُ وَالنَّهْسُ: نلورے کے مانند ایک پرنده جو ہمیشہ اپنی ذم ہلاتا رہتا ہے اور چڑیوں کا شکار کرتا ہے۔ ج نَهْسَانِ.</p>	<p>النَّهْرُ النَّهْرُ: سائل کو ڈانٹنا..... العِرْفُ: رگ سے خون نہر نکالنا..... بَطْنُهُ: پیٹ چلنا۔ النَّهْرُ النَّهْرُ: نہر کا اپنے بننے کے لئے مضبوط جگہ بنانا..... الشئ: وسیع و کشادہ ہونا اور ہر وہ چیز جو بہت ہو اور بہہ پڑے اس کے لئے اسْتَهْرًا استعمال کرتے ہیں۔</p>

النَّهْسُ: بجھڑیا۔ یا بجھڑے کا بچہ۔
 بلا پھلکا۔ تیز رفتار۔ گوشت کا بہت حریم۔
 نَهْسَةٌ (ف ض) نَهْسًا: اگلے دانتوں سے
 نوچنا۔ دانت سے کاٹ کر نشان ڈالنا.....
 الحَيَّةُ: سانپ کا ڈنسا۔ نَهْسَةُ السَّهْرِ:
 مشقت میں ڈالنا۔
 نَهَيْتُ وَنَهَيْتُ أَغْضُوْنَا: لاغر ہونا۔
 النَّهْأُوشُ: مظالم۔ عرب والوں کے قول
 نَهْسَةٌ سے جبکہ مشقت میں ڈال دیں۔ کہا
 جاتا ہے "هُوَ نَهْسُ الْيَدَيْنِ أَوْ الْقَوَائِمِ" وہ
 ہاتھ پاؤں کا بھرتلا ہے۔
 السَّنْهُوْشُ: مفتح۔ مشقت میں پڑا ہوا۔
 دہلا۔
 نَهَيْتُ الرَّجُلَ: بڑی عمر کا ہونا..... فُلَانًا:
 دانت سے کاٹنا..... الشَّيْءُ: سخت بھوکے کی
 مانند کھانا۔
 النَّهَيْلُ: بجھڑیا۔ شکر۔ بہت بڑھا۔
 بڑھاپے کی وجہ سے کاچنے والا۔ مَوْتٌ
 نَهَيْلَةٌ.
 نَهَضُ (ف) نَهْضًا وَنَهْضًا: کھڑا ہونا
 عَنْ مَكَانِهِ: اٹھنا..... إِلَى عَدُوِّهِ: جلدی
 سے حملہ کرنا..... السَّبْتُ: نباتات کا سیدھا
 کھڑا ہونا..... لِأَلَامٍ: مستعد ہونا.....
 الطَّائِرُ: پرندہ کا اڑنے کے لئے بازو پھیلانا
 (..... نَهْضًا) فُلَانًا: ظلم کرنا..... الشَّيْبُ
 فی الشَّبَابِ: جلدی بڑھاپا شروع ہو جانا۔
 نَاهَضُ قِرْنَهُ مَنَاهِضَةً: مقابلہ کرنا۔
 انْهَضَهُ: اٹھانا۔ کھڑا کرنے کے لئے ہلانا۔
 انْهَضَتِ الرِّيحُ السَّحَابَ: ہوا کا باروں کو
 چلانا اور اٹھانا..... القِرْبَةُ: منگے کو چھلنے تک
 بھرنا۔ انْهَضَ بِالشَّيْءِ: ٹیک لگا کے اٹھنا۔
 تَنَاهَضُوا فِي الْحَرْبِ: جنگ میں ایک
 دوسرے پر حملہ کرنا۔
 انْتَهَضُ: کھڑا ہونا..... فُلَانًا لِأَلَامٍ: مستعد
 کرنا۔ کھڑا کرنا..... الْقَوْمُ: مقابلہ کے لئے
 کھڑا ہونا۔
 انْتَهَضَ لِكَذَا: کسی کام کے لئے اٹھنے کو

کہنا۔
 النَّهَضُ: فَا۔ اڑنے کے لائق پرندہ کا بچہ۔
 گھوڑے کے بازو کے اوپر کا گوشت۔ کہا
 جاتا ہے "عَامِلٌ نَاهِضٌ" گر گزرنے والا۔
 "وَمَكَانٌ نَاهِضٌ" بلند جگہ۔
 نَاهِضَةُ الرَّجُلِ: مرد کے باپ کی اولاد اور
 اس کے خدام وغیرہ۔ نَجْ نَوَاهِضُ.
 السَّوَاهِضُ: بڑے ڈیل ڈول اور سخت بدن
 والے اونٹ۔
 النَّهْيَاضُ مِنَ الطَّرِيقِ: راستہ کی بلندیاں اور
 گھانٹیاں۔ النَّهْيَاضُ: جلدی۔
 النَّهْيُ: مَمْسٌ..... مِنَ البَعِيرِ: اونٹ کے
 مونڈھے اور کندھے کے درمیان کا حصہ۔
 نَجْ انْهَضُ. النَّهْيُ: ظلم و زبردستی۔ سخت
 زمین۔
 النَّهْيَةُ: نَهْضُ: کا اسم مرہ۔ طاقت و
 قوت۔ زمین کی چڑھائی کہ جس میں انسان
 یا چوپایہ پست زمین سے چڑھتے ہوئے تھک
 جائے۔ نَجْ نَهْيَاضُ کہا جاتا ہے "مَكَانٌ مِنْهُ
 نَهْيَةٌ إِلَى كَذَا" اس کی حرکت فلاں جانب
 ہے "وَهُوَ كَثِيرُ النَّهْيَاتِ" وہ بہت حرکت
 والا ہے۔
 النَّهْيَاضُ: بہت اٹھنے والا۔ گلا۔ مَمَكَانٌ
 نَهْيَاضٌ: بلند جگہ۔
 النَّهْيُضَلُ: عمر رسیدہ ادھی یا گدھ یا باز۔
 نَهْيَةٌ (ف) نَهَيْتُ بِالرَّمْحِ: نیزہ مارنا۔
 نَهَيْتُ (ف) نَهَيْتُ عَا: تے کرنا اور کچھ نہ
 ٹکنا۔
 نَهَيْتُ (ف ن ض) نَهَيْتُ الرَّجُلَ: متحیر ہونا۔
 نَهَيْتُ (ف) وَنَهَيْتُ (س) نَهَيْتُ وَنَهَيْتُ
 وَنَهَيْتُ وَنَهَيْتُ بِالْحِمَارِ: گدھے کا رینگنا۔
 صفت نَاهِضٌ.
 تَنَاهَضَتِ الْحُمُرُ: گدھوں کا رینگنا۔
 الشَّاهِقَانُ: کھروار جانور کے جڑے کی دو
 اُبھری ہوئی ہڈیاں اور ان کو السَّوَاهِقُ بھی
 کہتے ہیں۔
 نَاهِقُ الْحِمَارِ وَنَوَاهِقُهُ: گدھے کے گلے

سے آواز نکلنے کی جگہ اور بقول بعض سَوَاهِقُ
 اُن کو کہتے ہیں جو جانور کی ناک کے آخری
 حصہ کو گھیرے ہوئے ہیں۔ واحد نَهَيْتُ.
 النَّهْيُ: مَمْسٌ۔ پرندہ کی ایک قسم (.....
 وَالنَّهْيُ) ایک قسم کی نباتات۔ واحد نَهْيَةٌ
 وَغَفَقَةٌ.
 نَهَيْتُ (ف) نَهَيْتُ وَنَهَيْتُ: غلاب ہونا۔
 نَهَيْتُ السُّوْبُ: بہن کو بوسیدہ کرنا..... مِنْ
 الطَّعَامِ وَفِيهِ: کھانے میں مبالغہ کرنا.....
 عَرَضُ فُلَانٍ: آبروریزی میں مبالغہ کرنا
 الصَّرْعُ: تھکن سے دودھ نکال لینا.....
 نَهَيْتُ اللَّابِلُ مَاءَ الْحَوْضِ: ساراپی جانا
 الحَمِي فُلَانًا: لاغر کر دینا۔ مشقت میں
 مبتلا کر دینا..... الشَّرَابُ فُلَانًا: ڈبلا کرنا۔
 نَهَيْتُ (س) نَهَيْتُ وَنَهَيْتُ: سخت مزادینا
 (..... نَهَيْتُ وَنَهَيْتُ وَنَهَيْتُ وَنَهَيْتُ)
 الحَمِي فُلَانًا: لاغر و ڈبلا کرنا (..... نَهَيْتُ)
 فُلَانٌ الشَّرَابُ: ختم کرنا۔
 نَهَيْتُ نَهَيْتُ: لاغر و ڈبلا ہونا۔ صفت
 مَنَهْوَاكٌ.
 نَهَيْتُ (ك) نَهَيْتُ: دلیر ہونا۔
 انْهَيْتُ: سخت مزادینا۔
 انْتَهَيْتُ الحَمِي: لاغر و ڈبلا کرنا۔ انْتَهَيْتُ
 فُلَانٌ الحَرَمَةَ: اپنے چال چلن کو خراب کرنا
 الشَّيْءُ: بے عزتی کرنا..... فُلَانًا: بے
 آبروئی کرنا۔
 النَّهَيْكُ: فَا۔ تمام چیزوں میں مبالغہ کرنے
 والا۔
 النَّهَيْكُ: مَمْسٌ۔ بجز جڑے کے دہشت کو حذف
 کرنا۔ جزاء خیر کو یا مامی کو منْهَوَكٌ کہتے
 ہیں۔
 النَّهَيْكَةُ: نَهَيْكُ: کا اسم مرہ۔ کہا جاتا ہے
 "بَدَثٌ فِيهِ نَهَيْكَةُ المَرَضِ" اس میں مرض
 کا اثر و بلا پین ظاہر ہوا۔
 النَّهْوَكُ: دلیر۔
 النَّهَيْكُ: تمام چیزوں پر مبالغہ کرنے والا۔
 دلیر۔ مضبوط اونٹ۔ گوار قاطع۔ کہا جاتا

ہے "سِنْفٌ نَهْيُكَ" اچھے اخلاق والا (.....
و النَهْيُكَ) پسو کے مانند ایک کیزا جس کو
حرقوم بھی کہتے ہیں۔
السَّنَهْجَةُ: باعث پردہ دری۔ کہا جاتا ہے
"هَذَا سَنَهْجَةُ الْأَعْرَاضِ" یہ آبروریزی کا
سبب ہے۔

نَهَيْتُ (ی) نَهَيْتُ وَمَنْهَلًا لِالْبَلِي: پہلی بار
پینا۔ پیاسا ہونا۔
أَنْهَلَ الْإِبِلَ: پہلی بار پلانا..... الْقَوْمُ: پہلی
بار پٹے ہوئے اونٹوں والا ہونا..... أَنْهَلُوا
رُزْغَهُمْ: پہلی مرتبہ سیراب کرنا۔ أَنْهَلَ
فُلَانًا: غنہناک کرنا۔

السَّاهِلُ: فا۔ سیراب۔ پیاسا۔ ج نَهَلَ
و نَهَلَ وَنَهَوْلٌ وَنَهْلَةٌ وَنَهْلِي وَنَهَالٌ.
النَّاهِلَةُ مَوْتُ النَّاهِلِ: چشمہ کی طرف آنے
جانے والی ج نَهَالٌ وَنَوَاهِلُ. النَّوَاهِلُ:
بھوکے اونٹ۔

النَهْلُ: مص۔ ج نَهَلَ: پہلی مرتبہ پینا۔ وہ
خوراک جو کھائی جائے۔

السَّهْلَانُ: پینے والا۔ سیراب۔ پیاسا۔ ج
نَهَلِي اِبِلٌ نَهَلِي: بھوکے اونٹ۔

السَّهْلَانُ: بہت غصہ دلانے والا۔ ریت کا
بلند ٹیلہ جس سے ریت گرتی
رہے۔ قہر۔ بہت فیاض۔

السَّهْلَانُ: گھاٹ۔ پینا۔ راستہ پر پانی پینے کی
جگہ۔ ج مَنَاهِلُ.

نَهَمٌ (فِض) نَهَمًا وَنَهْمَةً وَنَهِيمًا الْإِبِلَ:
اونٹ کو تیز دوڑنے کے لئے ڈانٹنا۔

نَهَمٌ (ض) نَهَمًا: بہت کھانا۔

نَهَمٌ (ض) نَهَمًا وَنَهِيمًا الْقَبِيلَ: ہاتھی کا
چنگھاڑنا۔

نَهَمٌ (س) وَنَهَمٌ نَهَمًا وَنَهَامَةً فِي الْأَسْجَلِ:
حریس ہونا..... فُلَانٌ فِي الشَّيْءِ: مشتاق
ہونا۔

نَاهِمَةٌ مَنَاهِمَةٌ: باہم ٹھنڈی سانس بھرنا۔
النَّهْمُ: جھڑکی کھانا۔

النَّاهِمُ: فا۔ چلانے والا۔

النَّهَامُ: بٹکیٹ النون۔ لوہار۔ بڑھی۔
النَّهَامُ: ألو۔ راہب۔ ج نَهَمٌ.
النَّهَامِيُّ: بٹکیٹ النون۔ لوہار۔ بڑھی۔

السِّيَاهِيُّ وَالنَّهَامِيُّ: راہب۔ آسان
راستہ۔

النَّهْمُ: حریس۔

النَّهْمَةُ: مص۔ نَهَمٌ: کا اسم مرہ۔ حاجت۔
کسی چیز کی خواہش۔ کہا جاتا ہے "لَهُ فِي
هَذَا الْأَمْرِ نَهْمَةٌ" اس کو اس کی خواہش ہے
وَقَضَى مِنْهُ نَهْمَتَهُ اس نے اپنی خواہش
پوری کی۔

النَّهَامُ: اسم مبالغہ۔ شیر۔ واضح راستہ کا
درمیان۔ النَّهَامَةُ: النَّهَامُ: کاموٹ۔ شیر۔
النَّهِيمُ: حریس۔ شیر کی دھاڑ۔ ہاتھی کی
چنگھاڑ۔

السَّنَهَامُ مِنَ الْإِبِلِ: ڈانٹ پر مطیع ہونے
والی اونٹنی۔ ج مَنَاهِمٌ.

السَّنَهُومُ: مفتح۔ حریس۔ مشتاق و فریفت۔ کہا
جاتا ہے "هُوَ سَنَهُومٌ بِالسَّالِ" وہ مال کا
حریس ہے سیر نہیں ہوتا۔

نَهْنَهَةٌ نَهْنَهَةٌ عَنِ الشَّيْءِ: روکنا۔ ڈانٹنا۔
تَنْهَنَةٌ: روکنا۔

النَّهْنَةُ: باریک بناوٹ کا کیزا۔

نَهَاءٌ يَنْهَوُهُ نَهْوًا: ایک لغت ہے نَهَاءٌ يَنْهَأُ
نَهْيًا يَأْتِي مِنْ۔

نَهَاءٌ يَنْهَأُ نَهْيًا عَنْ كَذَا: ڈانٹنا۔ منع کرنا۔
صفت مذکر ناہفت مَوْتُ نَاهِيَةٌ اور جس
سے منع کریں اس کو مَنَهِيٌّ عَنْہُ کہتے ہیں اور
اسم النَهْيَةِ نَهَى اللّٰهُ عَنْ كَذَا: حرام کرنا اور

کہا جاتا ہے "هُوَ رَجُلٌ نَهَاكَ مِنْ رَجُلٍ"
یہ ایسا شخص ہے جس نے تم کو دوسرے شخص
کے طلب کرنے سے منع کر دیا ہے اور تم کہتے
ہو "هِيَ امْرَأَةٌ نَهَيْتُكَ مِنْ امْرَأَةٍ وَهَمَّا
رَجُلَانِ نَهَيْتُكَ مِنْ رَجُلَيْنِ وَهَمَّ رَجُلَانِ
نَهَوَكَ مِنْ رَجَالٍ".

نَهَى وَنَهَى إِلَيْهِ النَّخِيرُ: پہنچنا۔
نَهَى يَنْهَى نَهْيًا عَنِ الْحَاجَةِ: چھوڑ دینا۔

نَهَى يَنْهَى نَهْيًا عَنِ الْحَاجَةِ: چھوڑ دینا۔

نَهَى يَنْهَى نَهْيًا عَنِ الْحَاجَةِ: چھوڑ دینا۔

(کا مياہ ہویا نا کا مياہ)

نَهْوٌ يَنْهَوُهُ نَهْوًا: کامل انقض ہونا۔

نَهَاءٌ تَنْهِيَةٌ: منع کرنا (تشدید مبالغہ کے لئے
ہے) نَهَى الشَّيْءُ: انتہا کو پہنچنا..... إِلَيْهِ
النَّخِيرُ: پہنچنا۔

أَنْهَى أَنْهَاءَ الشَّيْءِ: پہنچنا..... الْأَمْرَ إِلَى
الْحَاكِمِ: اطلاع دینا۔ کہا جاتا ہے "طَلَبَ
حَاجَةً حَتَّى أَنْهَى عَنْهَا" اس نے حاجت
طلب کی اور بغیر کامیابی و عدم کامیابی ترک
کر دی۔ انہی الرَّجُلِ مِنَ اللَّحْمِ: آکٹنا
کرنا اور آسودہ ہونا۔

تَنَاهَى تَنَاهِيًا عَنِ الشَّيْءِ: روکنا..... الْقَوْمُ
عَنِ الْمُنْكَرِ: بعض کا بعض کو منع کرنا.....
الشَّيْءُ: انتہا کو پہنچنا..... الْمَاءَ: پانی کا تالاب
میں ٹھہرنا..... تَنَاهَى النَّخِيرُ: پہنچنا۔

أَنْتَهَى أَنْتَهَاءً الشَّيْءِ: انتہا کو پہنچنا..... عَنِ
الشَّيْءِ: روکنا..... إِلَيْكَ الْمَنْعَلُ أَوْ النَّخِيرُ:
پہنچنا..... بُلْغَانَ إِلَى مَوْضِعٍ كَذَا: پہنچنا۔
أَسْتَنْهَأُ اسْتِنْهَاءً: کسی سے کہنا کہ ترک
جاؤ۔ وَاسْتَنْهَيْتُ فُلَانًا مِنْ فُلَانٍ: میں نے
فلاں سے کہا کہ فلاں کو مجھ سے باز رکھو۔

النَّاهِي: فا۔ ج نَهَاءٌ: حکم سیر۔ سیراب اور کہا
جاتا ہے "نَاهِيكَ بِزَيْنِدٍ فَارَسًا" زید
تمہارے لئے کافی شہسوار ہے اور یہ مقام
تجربہ و استطام میں بولا جاتا ہے۔ مقصود یہ
ہے کہ وہ تمہارے مطلوب کی انتہا ہے غیر
کے طلب کرنے سے مانع ہے اور عرب کا
قول "هَذَا رَجُلٌ نَاهِيكَ مِنْ رَجُلٍ" (یہ
شخص تمہارے لئے فلاں شخص سے کافی
ہے) کلمہ ہے جو مقام مدح میں بطور تعجب
کے بولا جاتا ہے اور پھر کثرت استعمال سے
ہر تعجب میں بولا جانے لگا اور چونکہ یہ اسم
فاعل ہے اس لئے مَوْتُ اور مَشِيْرٌ اور جمع
ساری صورتوں میں مستعمل ہے۔ تم کہو گے
"هَذِهِ امْرَأَةٌ نَاهِيَتُكَ مِنْ امْرَأَةٍ وَعَلَى
هَذَا الْقِيَاسِ" اور کہا جاتا ہے "فُلَانٌ مَالَةٌ
نَاهِيَةٌ" فلاں کے لئے عقل نہیں جو اس کو قبیح

نَهَى يَنْهَى نَهْيًا عَنِ الْحَاجَةِ: چھوڑ دینا۔

نَهَى يَنْهَى نَهْيًا عَنِ الْحَاجَةِ: چھوڑ دینا۔

نَهَى يَنْهَى نَهْيًا عَنِ الْحَاجَةِ: چھوڑ دینا۔

نَهَى يَنْهَى نَهْيًا عَنِ الْحَاجَةِ: چھوڑ دینا۔

نَهَى يَنْهَى نَهْيًا عَنِ الْحَاجَةِ: چھوڑ دینا۔

اور انسواء: جنہیں کے نزدیک اٹھائیس ہیں۔ جن کے مطالع مشہور ہیں۔ ہر تیرہ دن میں ایک ستارہ مغرب میں غروب ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں اسی وقت دوسرا ستارہ مشرق میں طلوع ہوتا ہے اور ان اٹھائیس ستاروں کے خاتمہ کے ساتھ ساتھ سال کا اختتام ہو جاتا ہے اور پھر از سر نو شروع ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کا خیال تھا کہ ایک ستارے کے طلوع اور دوسرے کے غروب کے وقت بارش یا ہوا کا ہونا ضروری ہے اسی وجہ سے وہ بارش کو اسی ستارے کی طرف منسوب کرتے تھے جس کے طلوع کے وقت ہوتی تھی اور کہتے تھے مثلاً مُطْرُنَا بِنَوْءِ الثُّرَيَّا او بِنَوْءِ الدَّبْرَانِ۔

النَّهْيَةُ وَالنَّهْيَةُ مِنَ الْوَادِي وَالْوَادِي كَالْآخِرِي كِنَارِهِ۔ ج تنہا۔
النَّهْيَةُ: سیلاب کے لئے روک۔ بند۔
مَنْهِي الشُّرُوعِ: شربت کے ممنوعات۔
النَّهْيَةُ: انتہا۔ آخری حد۔ عقل۔ ایسی حالت جو گناہ سے دور رکھے۔ زَجْلٌ مَّنْهَاةٌ: عقوبت۔ اچھی تدبیر والا۔
الْمُنْتَهِي: انتہا۔ آخری حد۔

نَاءٌ يَنْوَأُ نَوْءًا وَتَنْوَأُ: مشقت جو تکلیف سے اٹھنا۔ کرنا۔ بِالْحَمْلِ: مشکل سے اٹھانا۔ بِه الحَمْلُ: بوجھل کرنا۔ جھکا دینا۔ النَّجْمُ: مغرب میں ایک ستارہ کا غروب ہونا اور اسی وقت دوسرے ستارے کا مشرق میں طلوع ہونا اور نساء ایک لغت ہے نامی میں بمعنی بعید ہونا۔

نَاوَاهُ مَنَاوَاهُ وَنَوَاءٌ: فخر کرنا۔ مقابلہ کرنا۔ دشمنی کرنا۔
أَنَاءٌ أُنَاءٌ أَلْمَلُ: بوجھل کرنا۔ جھکانا۔
إِسْتِنَاءٌ إِسْتِنَاءٌ أَلْمَلُ: بمعنی نساء النجْم..... فَلَآتَا: عطیہ طلب کرنا۔

النَّوَاءُ: مص۔ ستارہ جو مائل بغروب ہو۔ بارش۔ عطیہ ج انوَاءٌ وَنَوَاءٌ وَنَوَاءٌ کہتے ہیں صدق النوء جب کہ بارش ہو اور کہا گیا ہے کہ نساء کے معنی ایک ستارے کا مغرب میں غروب ہونا اور اس وقت مشرق میں دوسرے ستارے کا جو اس کے مقابل ہو طلوع ہونا اور یہ ہر رات میں تیرہ دن تک ہوتا ہے۔ سوائے جبہ نامی ستارہ کے کہ اس کے لئے چودہ دن ہیں۔ اور نساء کو نساء اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب ایک غروب ہوتا ہے تو دوسرا اٹھتا ہے اور طلوع ہوتا ہے اور یہی طلوع نساء ہے۔

نَابٌ يَنْوُبُ نَوْبًا وَمَنْبَا وَمَنْبَا فِي الْأَمْرِ عَنِ زَيْدٍ: قائم مقام ہونا۔ صفت نائب اور جس کی قائم مقامی کی جائے اس کو مَنْوُبٌ عَنَهُ اور جس میں قائم مقامی کی جائے اس کو مَنْوُبٌ فِيهِ کہتے ہیں..... إِلَيْهِ بَار بَارُوا إِيَّاسِ آتَا: کہا جاتا ہے "النَّحْلُ تَنْوُبُ إِلَى الْخَلَاءِ" شہد کی کبھی بار بار چھتے کی طرف واپس آتی ہے..... إِلَى اللَّهِ: توبہ کرنا..... فَلَآنُ: خدا کی اطاعت کرنا۔
نَابٌ يَنْوُبُ نَوْبًا وَنَوْبَةٌ فَلَآنَا أَمْرٌ: جیش آتا۔
نَاوِيَةٌ مَنَاوِيَةٌ: سزا دینا۔
نَوْبٌ: فَلَآنُ: باری مقرر کیا جاتا۔
أَنَابَ زَيْدٌ عَنَهُ وَكَيْفَ لِي كَذَا: قائم مقام کرنا۔ زید کو مبینہ وکیل کو منساب اور امر کو منساب فیہ کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے "أَنْبَسْتُ مَنْسَبِي" میں نے اس کو اپنا قائم مقام کیا..... إِلَيْهِ: باری باری واپس ہونا..... إِلَى اللَّهِ:

سے روکے "وَمَا تَنْهَاهُ عَنَّا نَاهِيَةٌ" اس کو ہم سے کوئی چیز روکنے والی نہیں۔ ج نَسْوَاهُ اور کہا جاتا ہے "مَا يَنْظُرُ فِيهِ أَوْ أَمِيرُ اللَّهِ وَنَوَاهِيَهُ" وہ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی رعایت نہیں کرتا۔

النَّهْيَةُ: چیز کا آخری مرتبہ..... مِنَ النَّهْيَارِ وَالنَّهْيَةُ: چیز حائل۔ النَّهْيَةُ: ایک قسم کا سفید پتھر۔ ایک قسم کا خر مہرہ۔ اندازہ۔ مقدار۔ کہا جاتا ہے "هُمُ نَهْيَةٌ مَبَايِعٌ" وہ لوگ بقدر سوکے ہیں۔
النَّهْيَةُ: پانی کی چڑھائی۔ شیشہ۔ شیشہ کی صراحی۔ اندازہ۔ مقدار۔ کہا جاتا ہے "هُمُ نَهْيَةٌ مَبَايِعٌ" وہ لوگ سوکے قریب ہیں۔
نَفْسٌ نَهْيَةٌ: باز رہنے والا نفس۔

النَّهْيَةُ: انتہا۔ آخری مرتبہ۔ ج نَهْيَاتٍ نَهْيَاتٍ الدَّارِ: گھر کے حدود۔
النَّهْيَةُ: مص..... عِنْدَ النَّحَاةِ: کسی سے ترک فعل کو طلب کرنا اور اس کا حرف کلمہ لا ہے جس کا نام لانساہیہ ہے کہا جاتا ہے "هُوَ زَجْلٌ نَهْيِكٌ مِنْ زَجْلٍ" بمعنی "ناہیک" میں زجل" اور چونکہ یہ مصدر ہے اس لئے مَوْثِقٌ اور شنیہ جمع نہیں لاتے۔

النَّهْيَةُ وَالنَّهْيَةُ: تالاب۔ جو بڑ۔ ج أَنَّهُ وَانْتِهَاءٌ وَنَهْيٌ وَنَهْيَةٌ.
النَّهْيَةُ وَالنَّهْيَةُ: کامل العقل۔ کہا جاتا ہے "هُوَ نَهْيٌ وَنَهْيٌ" ج نَهْيُونَ وَنَهْيُونَ۔
النَّهْيَةُ: شیشہ۔
النَّهْيَةُ: النَّهْيَةُ: کی جمع۔ عقل اور عقل کو نہی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ ہر قبح اور منافی عقل سے مانع ہوتی ہے۔

النَّهْيَةُ: اسم ہے جس سے۔ آخری مرتبہ چیز کی انتہا۔ میخ کے سرے کا سوراخ۔ عقل۔ ج نَهْيٌ نَهْيٌ.
نَاقَةٌ نَهْيَةٌ: انتہائی موٹی اونٹنی۔
النَّهْيُ: منع کرنے والا۔ ضد ہے أَمْرٌ كَمَا بِمَعْنَى أَمْرٍ: کہا جاتا ہے "هُوَ نَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ" وہ برائی سے روکنے والا

متوجہ ہونا اور توبہ کرنا اور کہا جاتا ہے "اتَّصَبِي فَلَانَ فَمَا أَبَتْ لَهُ وَالْيَهُ" میرے پاس فلاں آیا میں نے اس کی پروا نہیں کی۔

تَنَاوَبُوا تَنَاوَبًا عَلَى الْمَاءِ: تقسیم کی کنکری سے بانٹنا..... الْأَمْرُ: باری باری کرنا.....

تَنَاوَبَتْهُ الْخَطُوبُ: حوادث و مصائب کا پیش آنا اور کہا جاتا ہے "الْمَسَائِدُ تَتَنَاوَبُنَا" موت ہر ایک کی باری سے آتی ہے "تَنَاوَبُوا الْخَطْبُ" او الْأَمْرُ: باری باری سے وہ کام کرنے کے لئے مستعد ہوئے۔

إِتِّصَابُهُمُ الْيَتِيمَانَ: پیارے آنا..... فَلَانًا أَمْرًا: لاحق ہونا۔ پیش آنا..... زَيْدٌ عَضْرًا: قصد کرنا۔

إِسْتِنَابُهُ اسْتِنَابَةً: اپنا ناسب بنانا۔

النَّائِبُ: قا۔ قائم مقام۔ ج نَوْبٌ وَنَوَائِبٌ اور کہا جاتا ہے "خَيْرُ نَائِبٍ" یعنی خیر کنیز۔

النَّائِبَةُ النَّائِبُ: کامونٹ۔ حادثہ۔

مصیبت۔ ج نَائِبَاتٍ وَنَوَائِبِ. النَوَائِبُ عام اس سے کہ خیر ہوں یا شر۔ نَوَائِبِ السُّرْعِيَّةِ: بیل اور سڑک وغیرہ کی درستی کے لئے شاہی ٹکس۔ السُّحْبَى النَّائِبَةُ: روزانہ کا بخار۔

الْيَسَابَةُ: مص۔ قائم مقامی۔ باری۔ کہا جاتا ہے "جَاءَتْ يَسَابِكُ تَهْمَارِي بَارِي آتَى"۔

النُّوبُ: مص۔ نایب کی جمع۔ ایک دن رات کا سفر۔ نزدیکی۔ قوت۔

النُّوبُ: جھیشوں کا ایک گروہ۔ نُوْبُهُ: کا رہنے والا۔ واحد نُوبِيٌّ: شہد کی کھسی۔ واحد النَّائِبُ.

النُّوْبَةُ: مص۔ فرصت۔ باری۔ دولت۔

لوگوں کی جماعت۔ کہا جاتا ہے "جَاءَتْ نُبُوْبُكَ" تمہاری باری آئی۔ ج نُوْبُ النَّوْبَةِ عِنْدَ الْأَطْيَاءِ: بخار شروع ہونے کا وقت۔

النُّوْبَةُ: حادثہ۔ مصیبت۔ ج نُوْبُ نَابَةِ أَمْرٍ وَاتِّصَابُهُ: کا اسم۔ توبہ کے رہنے والے سعید (مصر) کے جنوب میں ایک صوبہ۔

الصَّنَابُ: مص۔ کہا جاتا ہے "صَابَ صَنَابٌ الْقَاضِي" وہ قاضی کے قائم مقام ہوا۔ پانی کی طرف راست۔

المُئَيَّبُ: قا۔ بکثرت بارش۔ عمدہ بہار۔

نَاتٌ يَنْوُتُ نَوْتًا: کمزوری کی وجہ سے جھک پڑنا۔

نَوْتَرُونَ: ایٹم کے مرکزہ کے گرد مٹی چارج والے ذرات جن کو الیکٹران کہتے ہیں۔

مختلف مداروں میں گردش کرتے ہیں۔ ایک الیکٹران برقی چارج کا سب سے چھوٹا یونٹ ہے۔

النُّوْتِيُّ: مٹھی بان۔ جہازوں۔ ج نَوْتِيٌّ اور بقول بعض معرب ہے۔

نَاجٌ يَنْوُجُ نَوْجًا: ریا کاری کرنا۔ فریب دینا۔

النُّوْجَةُ: ناج۔ کا اسم مرہ۔ بگولا۔ ج نَوْجٌ.

فَاحَتْ تَنْوُجٌ نَوْحًا وَنَوَاحًا وَنِيَاخًا وَنِيَاخَةٌ وَمَسَاخًا السَّمْرَةُ الْمَمِيَّتُ وَعَلَى الْمَمِيَّتِ:

مردہ پروا دیا کرنا۔ اسم النِّيَاخَةُ.....

الْحَمَامَةُ: کوکو کرنا۔ صفت نَائِيخَةٌ وَنَوَاحَةٌ.

نَاوِحَةٌ مَنَازِحَةٌ: مقابلہ کرنا۔

تَنْوُجٌ تَنْوُجًا الشَّى: جھولنا۔

تَنَاوَحَ تَنَاوَحًا الْجِبَلَانِ: دو پہاڑوں کا باہم مقابل ہونا۔ تَنَاوَحَتِ الرِّيَّاحُ: ہواؤں کا تیز چلنا۔ کبھی پُرُوَانِيٌّ کبھی شَمَالِيٌّ کبھی جَنُوبِيٌّ ہوا کا چلنا۔

اسْتِنَاخَتْ اسْتِنَاخَةَ الْمَرْأَةِ: نوحہ کرنا۔ واو یلا کرنا۔ اسْتِنَاخُ اللَّذْبِ: بھیڑیے کا جھونکنا..... الرَّجُلُ: رو کر دوسرے کو رلانا

..... فَلَانًا: رلانا۔

النَّائِيخَةُ: اسم قائل مونٹ۔ ج نَوُوحٌ وَأَنْوَاخٌ وَنَوُوحٌ وَنَوَائِيحٌ وَنَائِيحَاتٌ.

النُّوُوحُ: مص۔ اکٹھی ہو کر نوحہ کرنے والی عورتیں۔ کہا جاتا ہے "نِسَاءٌ نُوُوحٌ" بمعنی نَوَاحٍ.

النُّوُوحَةُ: اسم مرہ۔ میت پر مین۔ قوت۔

النُّوَاخُ: اسم مبالغہ۔ مونٹ نَوَاحَةٌ قَمْرِيٌّ كِي

مانند ایک پرندہ۔

الْمَنَاحَةُ: نوحہ کی مجلس۔ نوح کا اسم۔ کہا جاتا ہے "كُنَّا فِي مَنَاحَةِ فَلَانَ" ہم فلاں کے اوپر مین کرنے میں تھے۔ ج مَنَاحَاتٍ وَمَنَازِحٍ.

الْمَنَاحَةُ: اکٹھی ہو کر نوحہ کرنے والی عورتیں۔

نَوُوحٌ تَنْوِيحًا اللَّهُ الْأَرْضَ طُرُوقًا لِلْمَاءِ: ہموار کرنا اور برداشت کرنے کی طاقت دینا۔

آخَ إِذَاخَةَ الْجَمَلِ: اونٹ کو بٹھانا۔ کہا جاتا ہے "الْأَخْتُ الْبَعِيْرُ فَبَسْرَكَ وَتَسْوُوحٌ وَاسْتِنَاخٌ" میں نے اونٹ کو بٹھا یا وہ بیٹھ گیا اور نسَخَ اور آخَ نہیں بولا جاتا..... فَلَانَ بِأَلْمَسْجَانِ: اقامت کرنا..... الْبَلَاءُ أَوِ الدُّلُّ بِفُلَانٍ: نازل ہونا۔ آخَ بِهِ الْحَاجَةُ: نازل کرنا۔

اسْتِنَاخُ اسْتِنَاخَةَ الْجَمَلِ: اونٹ کا بیٹھنا۔ النَّائِيخَةُ: دُور کی زمین۔

السُّنَاخُ: اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ۔ اقامت گاہ۔ غیر پسندیدہ جگہ کے لئے کہا جاتا ہے "هَذَا مَنَاحٌ سُوءٌ".

المُئَيَّبُ: قا۔ شیر۔

نَادَ يَنْوُدُ نَوْدًا وَنَوَادًا وَنَوْدَانًا: نیند سے جھومنا۔

تَوَوَّدَ تَوَوَّدًا الْفُضُنُ: ٹہنی کا ہلنا۔

نَوَوْدٌ نَوَوْدَةً الرَّجُلُ: بڑھاپے کی وجہ سے کا ہلنا۔

النَّوَوْدُ: پستان۔

السُّنُوْدُ: بڑھاپے کی وجہ سے کا ہلنے والا بڑھا۔ کہا جاتا ہے "مَشَى الرَّجُلُ مَنُوْدِلًا" مرد بدن چھوڑ کر چلا۔

نَارٌ يَنْوُرُ نَوْرًا وَنِيَارًا: روشن ہونا..... الْبَعِيْرُ: اونٹ پر داغ لگانا..... الْقَوْمُ: تھکت کھانا

..... النَّارُ مِنْ بَعِيْدٍ: آگ دور سے دیکھنا۔ (نَسَرَتِ الْمَرْأَةُ نَوْرًا وَنَوَارًا وَنَوَارًا)

تہمت سے بچنا۔ شک و شبہ سے دور ہونا.....

السُّنُوْدُ: بڑھاپے کی وجہ سے کا ہلنے والا بڑھا۔ کہا جاتا ہے "مَشَى الرَّجُلُ مَنُوْدِلًا" مرد بدن چھوڑ کر چلا۔

نَارٌ يَنْوُرُ نَوْرًا وَنِيَارًا: روشن ہونا..... الْبَعِيْرُ: اونٹ پر داغ لگانا..... الْقَوْمُ: تھکت کھانا

..... النَّارُ مِنْ بَعِيْدٍ: آگ دور سے دیکھنا۔

(نَسَرَتِ الْمَرْأَةُ نَوْرًا وَنَوَارًا وَنَوَارًا)

تہمت سے بچنا۔ شک و شبہ سے دور ہونا.....

السُّنُوْدُ: بڑھاپے کی وجہ سے کا ہلنے والا بڑھا۔ کہا جاتا ہے "مَشَى الرَّجُلُ مَنُوْدِلًا" مرد بدن چھوڑ کر چلا۔

نَارٌ يَنْوُرُ نَوْرًا وَنِيَارًا: روشن ہونا..... الْبَعِيْرُ: اونٹ پر داغ لگانا..... الْقَوْمُ: تھکت کھانا

..... النَّارُ مِنْ بَعِيْدٍ: آگ دور سے دیکھنا۔

(نَسَرَتِ الْمَرْأَةُ نَوْرًا وَنَوَارًا وَنَوَارًا)

تہمت سے بچنا۔ شک و شبہ سے دور ہونا.....

الْفَيْسَةُ: فَيْسٌ كَالْوَالِحِ هَوَانًا - بَحِيلَانًا - صِفَتُ نَابِرَةٍ.
نَوَّرَ تَنْوِيرًا. الشُّي: رُوشَنٌ هَوَانًا.....
المَضْبَاحُ: جِرَاحٌ رُوشَنٌ كَرَانًا..... عَلِي
فُلَانٌ: مُشَبَّهٌ كَرَانًا..... التَّمْرُ: تَمَّحَلٌ يَمِينًا.....
الصُّبْحُ: رُوشَنٌ يَكِينًا..... الشَّجَرُ: كَلٌّ تَكَالَانًا.....
بِفُلَانٍ: رُوشَنٌ دَكْهَانًا..... السَّرُوحُ: يَكِينًا.....
الْمَرْأَةُ: تَهْمَتٌ سَ بَحَانًا - شَكٌّ وَشَبَهٌ
سَ دَوْرٌ رَكْنًا -

نَاوِرَةٌ مُنَاوِرَةٌ: بِأَمَامِ كَالِي كَلُوجِ كَرَانًا -
أَسَارٌ إِنْزَارَةٌ الشُّي: رُوشَنٌ هَوَانًا - خُوبَصُورَةٌ
هَوَانًا - ظَاهِرٌ هَوَانًا..... التَّبِيثُ: رُوشَنٌ كَرَانًا.....
المَسْأَلَةُ: وَاضِحٌ كَرَانًا..... اللَّهُ بُرْهَانُهُ: حِجَّتُ
كِي تَلْقِينُ كَرَانًا..... الشَّجَرُ: كَلٌّ تَكَالَانًا -

أَنْوَرَ أَنْوَارًا. الشُّي: ظَاهِرٌ هَوَانًا -
تَنْوَرٌ تَنْوَرًا. التَّمْكَانُ: رُوشَنٌ هَوَانًا.....
السَّرْجُلُ: بِأَلٍ دَوْرٌ كَرَانًا سَ لَئِي پَاوِزِ
استعمال كَرَانًا - القَوْمُ: تَشَكَّتُ كَهَانًا..... النَّارُ
مِنْ بَعِيدٍ: دَوْرٌ سَ دِكِينًا..... السَّرْجُلُ: كَيْسِي
تَخْفِضُ كُو آگ كَ پَاسِ اِيكِي جَلَكِ سَ دِكِينَا
كِرُوهُ اس كُو نَدِكِيهِ رِ بَا هُو -

النَّارُ اِنْتِزَارًا وَانْتَوَرَ اِنْتِزَارًا: بِأَلٍ اِزَانًا كَا
پَاوِزِ اِستِعمال كَرَانًا -
اِنْتِزَارٌ اِنْتِزَارَةٌ التَّبِيثُ: رُوشَنٌ هَوَانًا..... بِه:
كَيْسِي سَ رُوشَنِي كِي مَدَا مَلْنَا..... عَلِيهِ: بَلِخُ
مَنْدٌ هَوَانًا - غَالِبٌ هَوَانًا..... الْمَرْأَةُ: تَهْمَتٌ
سَ بَحَانًا - شَكٌّ وَشَبَهٌ سَ دَوْرٌ رَكْنًا -

السَّابِرَةُ: اِسْمٌ قَاعِلٌ مَوْنَتٌ - عِدَاوَةٌ - بِنْفِضُ
كَيْنَدٌ - جِ نَوَائِرُ
النُّوْرُ وَالنُّوْرُ: كَالجَلِّ - اَشْمِدٌ (سِرْمَدَا
پَچَر) كِي مَانَدٌ تَكْرِي جِس كُو بَارِيكِ پِيئِس كَر
مَسُوْرٌ هَ پَر لَگَاتَ هِيئِس - شَكٌّ وَشَبَهٌ سَ دَوْرٌ
رَبِيئِ وَالِي عَوْرَتِ - گَا نَ جُو سَانَدٌ سَ عَلِيحِدَه
رَبِيئِ - جِ نَوَائِرُ

النُّوْرُ: مَعْسٌ - شَكٌّ وَشَبَهٌ سَ دَوْرٌ رَبِيئِ وَالِي
عَوْرَتِ - گَا نَ جُو سَانَدٌ سَ عَلِيحِدَه رَبِيئِ - جِ
نَوَائِرُ

النُّوْرُ: شَكٌّ وَشَبَهٌ سَ دَوْرِي - يَادُوْرِي خَوَاهُ

كَيْسِي چِيْزَ سَ هُو -

النَّارُ: آگ - كَلِمَةٌ مَوْنَتٌ هَ اُوْر كَيْسِي مَذَكِر
اِستِعمال كِيَا جَاتَا هَ - تَصْغِيْرٌ نُوَيْرَةٌ جِ
أَنْوَرٌ وَنِيْرَانٌ وَنِيْرَةٌ. النَّارُ: دَاغٌ - رَاغِي
اُوْر نَارَ سَ جَهَنَّمَ كَا كَنَاءِيه كِيَا جَاتَا هَ جَبَلُ
النَّارِ: كُوهُ آتَشِ نَفْثَانِ نَسُو النَّارِ: قَتْلَاغٌ وَ
ضَنَانٌ وَثُوبٌ تَمِيْنٌ شَاعِرٌ جُو عَمْرِ بِنِ ثَعْلَبِ كَ
لُز كَ تَحِي اُوْر جُو دَتِ اِشْعَارِ كِي بِنَا پَر بِنُو النَّارِ

كِيَلَاتَ تَحِي اُوْر كِيَا جَاتَا هَ "أَوُّ قَدْ نَارَ
الْحَرْبِ" اس نَ لِرَائِي كِي آگِ بَجْرُ كَا كِي
"وَلَا تَسْتَفِيضِي بِنَارِ فُلَانٍ" فُلَانٌ سَ مَشُوْرَه
مَت لُو - "لَا تَصْرَاءُ عَن نَارِهِمَا" وَه دَوْنُو
اِسْكُطِي نِيئِس هُو تَ - اس حِيثِيَتِ سَ كَ اِيكِي
كِي آگِ دَوْرَ سَ كِي آگِ كَ مَقَابِلِ هُو -

"نَارُ التَّهْوِيلِ" زَمَانَةٌ جَابِلِيَتِ مِيئِ عَرَبِ كَا
طَرِيْقَه تَحَا كَ تَحَالُفِ كَ دَقْتِ آگِ رُوشَنِ
كِرَتَ تَحِي اُوْر اس مِيئِ نَمَكِ ذَالَتَ تَحِي
جِب وَه پَنَجَنِي تَحَا تُو اس سَ حَلْفِ كِي تَا كِيْدِ
كِيَحْتَجِي تَحِي - "نَارُ الْقَرْيِ" مِهْمَانِي كِي آگِ -

عَادَتٌ تَحِي كَ بَلَنْدِ جَلَكِ پَر رَاتِ مِيئِ آگِ
رُوشَنِ كِر دِيَا كِرَتَ تَحِي تَا كَ بَهُولَا بَهِيكَا مَسَا فِر
اس كُو دِكِيهِ كِر آ جَانِ اُوْر جَنْتِي هِي بَلَنْدِي پَر يِه
آگِ هُو تِي تَحِي اَتْنِي هِي بَا عِشْتِ فَرَحْتِي "نَارُ
الْاِنْتِزَارِ" اِعْلَانٌ جَلَكِ يَادَا فَعْتِ كِي آگِ
اس طَرَحِ پَر كَ جِب كَيْسِي قَوْمِ سَ لُزَانِ كَا
اِرَادَه يَا كَيْسِي قَوْمِ كَ حَمَلَكَا خَوْفِ كِرَتَ تَحِي تُو

آگِ رُوشَنِ كِر دِيَا كِرَتَ تَحِي اُوْر لُوگِ اسَ
دِكِيهِ كِر جَمْعِ هُو جَا يَا كِرَتَ تَحِي - "نَارُ
الْاِنْتِزَارِ" اِظْهَارٌ يَادِي كِي آگِ - عَرَبِ
جِب كَيْسِي قَوْمِ سَ مَقَابِلِ كَ لَئِي جَاتَ تَحِي
اُوْر كَيْسِي مَقَامِ پَر پَزَاوُ ذَالَتَ تَحِي تُو بَهِيْتِ
آگِ جَلَاتَ تَحِي اُوْر بَهِيْتِ سَ جَانُوْرِ ذَنْجِ
كِرَتَ تَحِي تَا كَ كُو نِي آگِ اُوْر ذَنْجِ كِي كِي
سَ قَلْتِ اَعْدَاوِ پَر اِستِدْلَالِ نَدَكِرَ سَ -

النُّوْرُ: مَعْسٌ - كَلِي يَا سَفِيْدِ كَلِي - وَاحِدٌ نُوْرَةٌ جِ
أَنْوَارٌ

النُّوْرُ: رُوشَنِي اُوْر يَقُوْلُ بَعْضُ نُوْرِ اس كِيْفِيَتِ كَا

نَامِ هَ جِس كُو قُوْتِ بَا صِرَه اُوْلَا اُوْر اَكِ كِرْتِي
هَ اُوْر اِيكِي كَ وَاسِطَ سَ مَهْرَاتِ كَا
اُوْر اَكِ كِرْتِي هَ جِ أَنْوَارٌ وَنِيْرَانٌ

النُّوْرُ: وَه جُو چِيْزُوں كُو ظَاهِرِ كِرُو سَ - نِهَاتَاتِ
كِي خُوْشَنَمَانِي اُوْر لِسَانِي - جِ نُوْرَةٌ دَاغٌ -
النُّوْرُ النُّوْرَةُ: اِيكِي خَانَه بَدُوْشِ قَوْمِ جُو اِيْشِيَا
يُوْرِپُ اَفْرِيْقَه اُوْر اَمْرِيكَه مِيئِ پَا كِي جَاتِي هَ
وَاحِدٌ نُوْرِي، النُّوْرِي: اُچْكَا -

النُّوْرَةُ: دَاغٌ - چُوْنَه كَا پَچَر - بِأَلٍ دَوْرٌ كَرَانًا
كَ پَاوِزِ - جَادُوْغِرْتِي -
النُّوْرُ: بَهِيْتٌ رُوشَنٌ -
النُّوْرُ: كَلِي - وَاحِدٌ نُوْرَةٌ جِ نَوَائِرُ
النُّوْرُ: رُوشَنٌ كَرَانًا -

النُّوْرَةُ النَّوْرُ: كَا مَوْنَتٌ - كِيَا جَاتَا هَ "بَغَاةُ
اللَّهِ نِيْرَةٌ" اَللَّهُ كِي مَارَ اس پَر اِيكِي پُزَ جُو
كَيْسِي سَ پُوْشِيْدَه نَدَرِ هَ -
الانْوَارُ: اِسْمٌ تَفْصِيْلِي - ظَاهِرٌ خُوْشَمَانِ كِيَا جَاتَا هَ
"هَذَا اَنْوَرٌ مِنْ ذَاكَ" يِه اس سَ وَاضِحٌ تَر
هَ -

النُّسَارُ: رُوشَنِي كِي جَلَكِ - عِلَامَتٌ جُو رَا سَتِي كِي
رَا اِهْمَانِي كَ لَئِي لَگَا كِي جَانِ - دُو چِيْزُوں
كَ دَرْمِيَانِ كَ خَدُوْدِ ذُو النَّسَارِ: اِمْرَه حِيَجِ
بِنِ الرَّاغِشِ كَالقَبِ كَ اس نَ مَنَارَه نَسَبِ
كِرَنِي كِي اِبْتِدَا كِي تَحِي -

النُّسِيْرُ: فَا - خُوْشِ رَنَكِ - چَمَكِدَارٌ - كِيَا جَاتَا
هَ "بَغَاةُ اللّٰهِ ذَاتٌ مَّنُوْرٌ" اَللَّهُ كِي مَارَ اس پَر
اِيكِي پُزَ جُو رُوشَنِ هُو اُوْر كَيْسِي سَ پُوْشِيْدَه نَد
رَبِيئِ -

النُّسَارَةُ: رُوشَنِي كِي جَلَكِ - رُوشَنِي كَا مَنَارَه -
آذَانِ دِيئِي كَا مَنَارَه - جِ مَنَاوِرٌ وَنَسَائِرُ
نَسُوْرَجِ نَسُوْرَجَةٌ: آ نَ جَانِئِ مِيئِ مَخْتَلِفِ -
چَمَلِ خُوْرِي كَ لَئِي چَلْنَا پَچَرْنَا -
النُّسُوْرَجِ: بَلِ كِي پَچَالِي - غَلَدَا بَنِي كَا اِيكِي
آلَه - خَوَاهُ لَكْرِي كَا هُو يَا لُو سَ كَا -

النُّسُوْرُ وَالنُّسُوْرُ: عِنْدَ الفَرَنْسِ: شَمْسِي سَالِ
كَ اِپِيْلَاوْنِ - خُوْشِي كَادَنْ -
النُّسُوْرُ: كَبُوْتَرِ كَ بَرَابَرِ يَا اس سَ كَچِه بَرَا

ایک آبی پرندہ جو فضا میں اترتا رہتا ہے پھر یکبارگی پانی میں غوطہ لگاتا ہے اور سوائے پھلی کے پتھر نہیں کھاتا اور اس کو مُسَخ المَاء بھی کہتے ہیں۔

نَوْرَةٌ تَنْوِيْزًا: کم کرنا۔

نَاسٌ يَنْوِسُ نَوْسًا لِأَبْلِ: اونٹوں کو ہانکنا (..... نَوْسًا وَنَوْسَانًا) الشَّيْءُ: جھولنا۔ کہا جاتا ہے "لَهُ صَفِيْرَتَانِ تَنْوِسَانِ عَلَيَّ عَا بَقِيْه" اس کے دو گیسو ہیں جو اس کے کندھوں پر لٹک رہے ہیں۔

نَوْسٌ بِالنَّمَانِ تَنْوِيْسًا: اقامت کرنا۔

أَنَاسٌ إِنَاسَةً الشَّيْءُ: ہلانا۔

تَنْوَسُ الْفَعْنُ: بٹنی کا ہوا کے چلنے سے ہلنا۔

النَّوْؤُسُ وَالنَّوْؤُسُ: نصرانیوں کا قبرستان (دلیل) ج نَوَاوِيْسُ: اس سگی تابوت کو بھی کہتے ہیں جس میں لاش رکھی جائے۔

نَوَاسٌ الْعَنْجُوْبُوتُ: کھڑی کا جالا۔ نَوَاسٌ الدُّخَانُ: دھوئیں کا جالا۔

النَّسَاسُ: اسم ہے جو ربط و قوم کے مانند جمع کے لئے وضع کیا گیا ہے۔ واحد انسان ہے اور تصغیر نُوَيْسٌ۔

النَّوَاسُ: نکلنے والا۔

النَّوَسَاتُ: چوئیاں۔

النَّوَيْسُ: بھجور جس کا کنارہ کالا ہو گیا ہو۔

نَاشٌ يَنْوِشُ نَوْشًا الشَّيْءُ: پکڑنا۔ ڈھونڈنا فَلَانٌ: چلنا..... البَعِيْرُ: اٹھنے میں جلدی کرنا۔

..... فَلَانًا: سر اور داڑھی پکڑنا..... زَيْدًا خَيْرًا: بھلائی پہنچانا۔ نَاشٌ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: چمٹنا۔ نُشْتُ مِنَ الطَّعَامِ: حاصل کرنا۔

نَاشُوهُمْ مَنَاوِشَةً فِي الْقِتَالِ: ہا ہم حملہ کرنا۔ نَاشٌ فَلَانٌ الشَّيْءُ: ہلانا۔

تَنَاشُ الشَّيْءُ: پکڑنا۔ تَنَاشُوا بِالرِّمَاحِ: تیز ہانڑی کرنا۔

إِنشَاشَةً إِنشَاشًا: پکڑنا۔ نکالنا۔ کہا جاتا ہے "إِنشَاشَةٌ مِنَ الْهَلَكَةِ" اس نے اس کو ہلاکت سے بچالیا۔

النَّوْؤُسُ: قوی۔ رَجُلٌ نَوْوُشٌ: سخت پکڑنے والا مرد۔

نَاصٌ يَنْوِضُ نَوْضًا وَمَنَاضًا وَمَيِّضًا عَن قِرْنِه: مقابل سے بھاگنا۔ جدا ہونا.....

فَلَانًا: سبقت لے جانا..... إِلَيْهِ: اٹھنا.....

الشَّيْءُ: کھینچنا..... لِلْمَحْرُوكَةِ: تیار ہونا..... عَنهُ: پیچھے ہٹنا (..... مَنَاضًا وَنَوِيضًا وَنِيضًا وَنِيصَاصَةً وَنَوْضًا وَنَوْضَانًا) الرَّجُلُ: حرکت کرنا۔ کہا جاتا ہے "مَا يَقْدِرُ عَلَيَّ أَنْ يَنْوِضَ" وہ حرکت کرنے پر قادر نہیں۔

نَاوِضَةٌ مَنَاوِضَةٌ: ہا ہم حملہ کرنا۔

أَنَاصَهُ إِنَاصَةً: ارادہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "أَنصْتُ أَنْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا" میں نے ارادہ کیا کہ اس سے کچھ لوں۔

إِنشَاصَتْ إِنشَاصًا الشَّمْسُ: آفتاب کا غروب ہونا۔

إِنشَاصَةً إِنشَاصَةً: حرکت دینا اور ہلکا بھٹنا اور اپنی ضرورت کے لئے لے جانا۔

إِنشَاصَ الْفَرَسُ: چلنے کے لئے حرکت کرنا..... الرَّجُلُ: سر بلند کرنا۔ پیچھے رہنا۔

النَّوْؤُسُ: موص۔ گورخر۔ سخاوت (..... والنَّوُصُ) گریز۔

النَّوِصَةُ نَاصٌ: کا اسم مرہ۔ پانی وغیرہ سے دھلائی۔ کہا جاتا ہے "مَآبِهُ نَوِيصٌ" اس میں قوت یا حرکت نہیں۔

النَّمَنَاصُ: موص۔ جائے پناہ۔ بھاگنے کی جگہ۔ تم کہتے ہو "مَآلِكٌ مِنَ مَنَاصٍ" تمہارے لئے نجات کی جگہ نہیں۔ سخاوت۔

نَاصٌ يَنْوِضُ نَوْضًا: ملکوں میں جانا۔ پیچھے ہٹنا..... الشَّيْءُ: اکھیرنے کی کوشش کرنا.....

النَّمَاءُ: پانی نکالنا..... التَّسْوِيُّ: بجلی کا چمکانا..... الشَّيْءُ: ہلنا..... الرَّجُلُ: بھاگ کر نجات پانا۔

نَوِضٌ تَنْوِيضًا التَّوْبُ بِالصَّبْحِ: کپڑے کو رنگنا۔

أَنَاصُ إِنَاصَةً: مشقت کا اثر آنکھوں میں ظاہر ہونا..... النَّخْلُ: درخت خرما کا تیار

ہونا، پکانا۔

النَّوْؤُسُ: پانی نکلنے کی جگہ۔ وادی۔ سریوں کے درمیان کی ہڈی..... مِنَ البَعِيْرِ: اونٹ کی پشت اور چوڑے کا درمیانی حصہ۔ ج

النَّوَاضُ وَأَنَاوِيضُ: الأَنَوَاضُ وَالْأَنَاوِيضُ: بلند جگہیں۔

النَّمَنَاصُ: جائے پناہ۔

نَاطَةٌ يَنْوِطُهُ نَوِطًا وَنِيْطًا: لگانا۔ کہا جاتا ہے "يَنْوِطُ عَلَيْهِ الشَّيْءُ" اس پر فلاں چیز لگانے لگی۔ نَاطَتِ الدَّارُ: گھر کا دور ہونا۔

نَاطَ الشَّيْءُ: بغیر مشورہ کے خود اپنی رائے سے کاٹنا۔

يَنْوِطُ بِهِ الشَّيْءُ: ملایا جاتا۔

نَوِطَةٌ: لگانا۔ نَوِطَ الْفَرْسَةَ: مشک میں تیل لگانے کے لئے جو بھل کرنا۔ کہا جاتا ہے

"أَنْوِطَ حَتَّى نَوِطَ الرُّوْحُ" اس نے تاخیر کی یہاں تک کہ تنگ ول ولول کر دیا۔

أَنَاطَهُ إِنَاطَةً بَكْدًا: لگانا۔ أَنَاطَ البَعِيْرُ: نوط کی بیماری لاحق ہونا (دیکھئے لفظ نَوِطَةٌ)

إِنشَاطَ إِنشَاطًا بِهِ: لگانا..... الشَّيْءُ: دور ہونا..... الشَّيْءُ: بغیر مشورہ کے خود اپنی رائے سے کاٹنا۔

إِنشَاطَ إِنشَاطَةً فَلَانًا بَعِيْرَهُ: خوراک لاونے کے لئے اپنا اونٹ ہمراہ کرنا۔

النَّمَانِطُ: فا۔ پیٹھ کی ایک اندرونی رگ۔ (..... والنَّمَانِطَةُ) پونا۔

النَّمَانِطُ: موص۔ ول..... مِنَ الْمَفَازَةِ: بیابان کے راستہ کی دوری اور کہا جاتا ہے "مَفَازَةٌ بَعِيْدٌ النَّمَانِطُ" دور حد والا بیابان۔ کہا جاتا ہے "قَطَعْتُ نَمَانِطَ الْبَلَدِ" یعنی میں نے شہر کو طے کیا۔ النَّمَانِطُ: چیز لگانے کی جگہ۔ ول کے متصل موٹی رگ کہ جب اس کو کاٹ دیتے ہیں تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ پیٹھ کی اندرونی رگ ج أَنَوِطَةٌ وَنَوِطٌ۔

النَّمَانِطُ: موص۔ جانور کے دونوں طرف کے بوجھ کے درمیان زائد بوجھ۔ کہا جاتا ہے "أَثْقَلُ النَّمَانِطُ الدَّابَّةَ" جانور کو درمیان کے

بوجھ کے درمیان زائد بوجھ۔ کہا جاتا ہے "أَثْقَلُ النَّمَانِطُ الدَّابَّةَ" جانور کو درمیان کے

بوجھ کے درمیان زائد بوجھ۔ کہا جاتا ہے "أَثْقَلُ النَّمَانِطُ الدَّابَّةَ" جانور کو درمیان کے

بوجھ کے درمیان زائد بوجھ۔ کہا جاتا ہے "أَثْقَلُ النَّمَانِطُ الدَّابَّةَ" جانور کو درمیان کے

زائد ہو چھ نے گرانبار کر دیا۔ جو چیز لٹکائی جائے۔ ج انواط و نیاط محمل سے لٹکی ہوئی چھوٹی ٹوکری جس میں کھجور وغیرہ ہو۔

السُّوْطَةُ: ناط: کا اسم مرہ۔ پوتا۔ اونٹ کے سینے اور ران کی جڑ میں ورم۔ اونٹ کے پیٹ میں غدود جو مہلک ہوتے ہیں۔ کینہ۔ جلد جس کے وسط میں درخت ہو اور اس کے دونوں طرف درخت نہ ہوں اور وہ جگہ سیلاب سے بلند ہو۔ پانی سے بلند جگہ۔ پشت اور سرین کے درمیان کی جگہ۔

السَّبَطُ: کنواں جس کے صرف اطراف سے پانی نکلتا ہو۔ وسط۔ درمیان۔ تم کہتے ہو "لا کثیر ولا قلیل ولكن يبسط بين الأمرين" یعنی وسط ہے درمیان قلیل و کثیر کے گویا کہ دونوں سے تعلق ہے۔

النِّيْطَةُ: اونٹ جس کو تم غلہ لانے والے کے ساتھ بھیجتا کہ تمہارے لئے غلہ لائیں۔

الانواط. نوط: کی جمع۔ لٹکی ہوئی چیزیں۔ کہا جاتا ہے "عندة انواط من التمر والعنب" اس کے پاس کھجور اور انگور کے لئے ہوتے کچھے ہیں۔

السُّوْطُ: ہودج پر جو چیز زینت کے لئے لٹکائی جائے۔

التَّوْطُ والتَّوْطُ: ایک قسم کا پرندہ۔ بیا واحد تَوْتُوْطٌ وتَوْتُوْطَةٌ.

السَّمَاطُ: لٹکانے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ بَيْتِي مَسَاطُ الثَّرِيَّا" وہ مجھ سے اتنا ہی بعید ہے جتنا ثریا (مَسَاطُ ظرفیت کی وجہ سے مضموب ہے)

"وَسُوْفُ فُلَانٍ مَسَاطُ الثَّرِيَّا" فلاں کے بیٹے شریف اور عالی مرتبہ ہیں۔

غَايَةُ مَسَاطَةِ: دور کی غایت۔

السَّمُوْطُ: اسم مفعول۔ کہا جاتا ہے "هَذَا مَسُوْطٌ بِهِ" وہ اس کے ساتھ معلق ہے۔ "وَهُوَ مَسُوْطٌ بِالْقَوْمِ" وہ قوم میں اجنبی ہے اور کہا جاتا ہے "بِعِزِّ مَسُوْطٍ" جبکہ اس کے سینے یا رانوں کی جڑوں میں ورم ہو۔

نَاعٌ يَنْوَعُ نَوْعًا الْغَضْنَ: بُنْي كَا جَمَلْنَا۔ الشَّيْ: رَانِحٌ هُوْنَا..... الرَّجُلُ: پیا سا ہونا..... الْعُقَابُ: کسی چیز پر ٹوٹ پڑنے کے لئے جھلکا۔ فُلَانٌ الشَّيْ: ذُو سُوْطٍ هُنَا..... الرَّجُلُ: بھوکا ہونا۔ صفت نَاعٌ نِجَ نِيَاعٌ.

نَوْعٌ تَسْوِيْفًا الشَّيْ: تَسْمِيْنٌ كَرْنَا۔ نَوْعٌ الزَّيْبُجِ الشَّيْ: بَلَانَا۔ نَوْعٌ زَيْدٌ الشَّيْ: لُكَا كَر جَمُوْلَتِي هُوْنِي جَمُوْرَانَا۔

تَنْوَعُ الشَّيْ: تَسْمِيْنٌ هُوْنَا۔ جَمُوْلَانَا..... الْبَغْضُ: بُنْي كَا بَلْنَا..... فِی السَّيْرِ: آگے بڑھنا۔

اِسْتِنَاعٌ اِسْتِنَاعَةُ الْغَضْنَ: بُنْي كَا بَلْنَا..... الرَّجُلُ فِی السَّيْرِ: آگے بڑھنا..... الشَّيْ: مدت تک رہنا۔

السَّنَاعُ: قَا۔ پیا سا اور کہا جاتا ہے بطور تابع کے "جِنَاعٌ نَاعٌ" یعنی بھوک کی وجہ سے جھکا ہوا۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ قَوْمٌ جِنَاعٌ يِنَاعٌ."

النُّوعُ: مَص۔ قسم اور یہ جس سے خاص ہے۔ نِجَ اَنْوَاعُ.

السُّوْعُ: پِیَا س۔ کہتے ہیں "زَمَاهُ الثُّلُةُ بِالسُّوْعِ وَالنُّوعِ" اللہ اس کو بھوک پیا س میں مبتلا کرے اور جب بددعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں "جُوْعَا نُوْعَا".

السُّوْعَانُ: شَاخٌ كَا بَلْنَا۔

السُّوْعَةُ: نَاعُ: كَا اِسْمُ مَرَاةٍ۔ تَارَهُ مِیُوہ۔ مَكَانٌ مُتَنَوِّعٌ: ذُو رُكُوْی كَا جَد۔

السُّوْعُ: طَرَزُ۔ طَرِيْقَةُ۔

نَافٌ يَنْوُفُ نَوْفًا. الشَّيْ: بَلِنْدٌ هُوْنَا..... عَلِي الشَّيْ: نَمَائَا ہونا..... السَّيْبُ: اُوْنْث كَا لَمْبَا اور بلند ہونا..... السَّيْبُ مِنَ السَّيْبِ: بچے کا پستان سے چوسنا۔

تَيْفٌ تَسْيِيفًا عَلِي كَمَذَا: زَاكِدٌ هُوْنَا۔ كَمَا جَا تَا هُوَ "تَيْفٌ الْعَدُوُّ عَلِي مَا تَقُوْلُ" جو تم کہہ رہے ہو اس سے عدد زائد ہے۔

اَنْفٌ اِنْفًا عَلِي الشَّيْ: نَمَائَا ہونا۔ طَوِيْلٌ هُوْنَا۔ بَلِنْدٌ هُوْنَا۔ كَمَا جَا تَا هُوَ "اَنْفُ الْجَبَلِ

وَأَنْفِ الْبِنَاءِ" پہاڑ بلند ہے۔ عمارت بلند ہے..... عَلِي كَمَذَا: زَاكِدٌ هُوْنَا۔ كَمَا جَا تَا هُوَ "اَنْفَاتِ السَّرَاهِمِ عَلِي الْجَاةِ" در اہم سو سے زائد ہیں۔

النِّيَافُ مِنَ الْجَمَالِ اَوِ النَّوْقُ: بَلِنْدٌ اُوْنْثِ يَا اُوْنْثِيَا۔ كَمَا جَا تَا هُوَ "جَمَلٌ نِيَافٌ وَنَاقَةٌ نِيَافٌ" "اِنْسْرَاةٌ نِيَافٌ" پورے قد کی خوبصورت عورت۔ فَلَاسَةُ نِيَافٌ: طَوِيْلٌ عَرِيضٌ بِيَا بَا ن۔

السُّوْفُ: مَص۔ بلند کوہان۔ آواز۔ دامن کا مچلا حصہ۔ نِجَ اَنْوَا فُ.

السَّنِيْفُ وَالسَّنِيْفُ: زِيَادَتِي۔ كَمَا جَا تَا هُوَ عَشْرَةٌ وَنَيْفٌ اَوِ نَيْفٌ: دَسٌ اُوْر دَسٌ سے زائد دس بیس تیس چھبیس دہائیوں سے جتنی زیادتی ہو اس کو نَيْفٌ کہتے ہیں یہاں تک کہ دوسری دہائی آئے اور لفظ نَيْفٌ کا استعمال انہیں چھبیس دہائیوں سے زیادتی کے لئے ہوتا ہے۔ اِسی لئے عَشْرَةٌ وَنَيْفٌ مَانَةٌ وَنَيْفٌ وَالْفُ وَنَيْفٌ تَوْبُوْلَا جَا تَا هُوَ مَرَّخَمْسَةَ عَشْرٍ وَنَيْفٌ نَمِيْسٌ كَمَا جَا تَا هُوَ

النَّيْفُ: نَضْلٌ وَاِحْسَانٌ اُوْر كَمَا جَا تَا هُوَ "نَيْفٌ عَلِيهِ" وہ اس سے زائد ہے۔ كَمَا جَا تَا هُوَ "جَبَلٌ عَلِي الْمَنَافِ" پہاڑ جس کے چڑھنے کی جگہ بلند ہو۔

الْمُنِيْفُ: قَا۔ جَبَلٌ مُنِيْفٌ: بَلِنْدٌ پِهَارٌ اُوْر بطور مجاز کے کہا جاتا ہے "لَهُ عِزٌّ مُنِيْفٌ" اُس کی عزت بلند ہے۔ اِصْرَاةٌ مُنِيْفَةٌ: پُوْرے قَدِ كِ خُوْبِصُوْرَتِ عَمُوْرَتِ۔

نَاقٌ يَنْوُفُ نَوْفًا: گُوْشْتِ سے چِرْبِي اِتَارَا۔ نَوْقٌ تَسْوِيْفًا الْجَمَلُ: اُوْنْث كَا سُدْهَانَا..... السُّخْلُ: مَا وَه كَمُوْرٌ مِيْنُ رُكْمُوْرٍ كِ پُھُوْلِ ذَا لَنَا..... الشَّيْ: تَرْتِيْبِ سے رَكْمَا۔

اَنْقٌ اِنْسَاقًا وَنَيْقًا الشَّيْ: فَلَاسَا: پِنْدَا نَا اَنْقٌ اَنْقًا كَا مَقْلُوْبٌ ہُوَ اُوْر نَيْقًا مَصْدَرٌ غَيْرُ قِيَاسِي (ہے)

تَسْوُقٌ تَسْوُقًا وَتَسْبِقٌ تَسْبِقًا وَاِنْسَاقٌ اِنْسَاقًا فِی مَلْبَسِيہِ وَمَطْعَمِيہِ وَاْمُوْرِيہِ: كَمَا نَعِي سِنِيْنِي اُوْر

دوسرے امور میں عمدگی اختیار کرنا (مانند تَسَائِقُ کے) تَسَوَّقُ بہ: مہربانی برتنا۔ اِنْتِاقُ الشَّيْءِ: پھینا۔

اِسْتَوَّقُ اِسْتَوَاقًا الْجَمْلُ: اونٹنی کے مشابہ ہونا اور اسی سے مثل ہے "اِسْتَوَّقُ الْجَمْلُ" اس موقع پر بولا جاتا ہے جبکہ کوئی شخص بات کرتا کرتا ایک بات میں بغیر کسی جوڑ کے دوسری بات ملا دے۔

السُّوَّقُ: تھوڑی سرخی کے ساتھ ملی ہوئی سپیدی۔

السِّيْقُ: پہاڑ کی بلند جگہ۔ جِ السِّيْقِ وَالسِّيَاقِ وَنِيُوُقُ.

السَّاقَةُ: اونٹنی جِ سَائِقٍ وَنُوُقٍ وَانْوُوقٍ وَانْوُوقِ وَانْوُوقِ وَانْبِقُ وَنِيَاقٍ وَنَاقَاتٍ وَانْوَاقٍ وَجِ اَيَابِقٍ وَنِيَاقَاتٍ.

السَّاقَةُ: ایک قسم کی پھنسی جو ہاتھ میں نکلتی ہے۔ ستارے جو اونٹنی کی شکل کے ہوتے ہیں۔

التَّوَقُّفُ: حذاقت۔ مہارت۔ ہوشیاری۔ التَّيَقُّفَةُ: اسم ہے تَسَوَّقُ کا۔

السَّوَّاقُ: کھڑی کا پرنا۔ جِ سَائِقَاتٍ (دخبل)

السَّوَّاقُ: وہ شخص جو اُمور کو ہوشیاری سے انجام دے۔

السِّيْقُ: کھانے پینے اور دیگر امور میں عمدگی اختیار کرنے والا۔

السُّوَّقُ: سدھا ہوا اونٹ جو اونٹنی کی مانند بنا دیا گیا ہو۔ مِّنَ السُّخْلِيِّ: زرخجور کا پھول ڈالا ہوا۔

نَاقَةٌ مُتَوَقِّةٌ: سدھائی ہوئی اونٹنی۔ نَوُوكٌ يَسُوُوكُ نَوُوكًا وَنَوُوكًا وَنَوُوكًا وَنَوُوكًا: بے وقوف ہونا۔

اَنُوُوكَةٌ اِنُوُوكًا: بیوقوف پانا یا بیوقوف سمجھنا۔ اِسْتَوُوكُ اِسْتَوُوكًا: بیوقوف ہونا۔

فَلَانًا: بیوقوف سمجھنا۔ کہا جاتا ہے "مَا اَنُوُوكَةٌ" وہ کیسا بیوقوف ہے (اور اَنُوُوكٌ بہ نہیں کہا جاتا حالانکہ یہ قیاس کے مطابق ہے)

الانْوُوكُ: بیوقوف۔ بہت زیادہ بیوقوف و عاجز و جاہل۔ بول چال میں عاجز جِ نُوُوكِي وَنُوُوكٌ مَوْثُوكًا جِ نُوُوكٌ. المَسْتَوُوكُ: بیوقوف۔

نَسَالٌ يَسُوُلٌ نَسُوَالًا وَنَسُوَالًا: فَلَانَا الْعَظِيَّةُ وَبِالْعَظِيَّةِ وَنَالٌ لَّهُ الْعَظِيَّةُ وَبِالْعَظِيَّةِ: دینا۔

جیسے "نَالِي بِالْخَيْرِ" اس نے مجھ کو خیر پہنچائی "وَنَالٌ لَهُ بَشْيٌ" بخشش کی اور کہا جاتا ہے۔

"نَسَالٌ لَهُ اَنْ يَفْعَلَ كَذَا" اس کے لئے ایسا کرنے کا وقت آ گیا۔

نَسُوُلُهُ تَسُوِيْلًا: عطیہ دینا۔ نَسُوُلُهُ مَعْرُوْفُهُ: بھلائی پہنچانا۔ نَسُوُلٌ عَلَيْهِ بَشْيٌ: دینا۔

نَسُوُلُهُ مَسْأَلَةٌ الشَّيْءِ: دینا یا ہاتھ بڑھانے دینا۔

اَسْأَلُهُ اِسْأَلَةَ الشَّيْءِ وَبِالشَّيْءِ: دینا۔ کہا جاتا ہے "اَسْأَلِي بِخَيْرٍ" اس نے مجھے بھلائی پہنچائی۔ اَسْأَلُ فَلَانَ بِاللَّيْلِ: قسم کھانا۔ کہا جاتا ہے "مَا اَنُوُوكَةٌ: وہ کس قدر فیاض ہے۔

تَسَوَّلُ الشَّيْءُ: لیتا۔ عَظِيْنَا فَلَانٌ بَشْيٌ يَسِيْبُو: تھوڑا سا دیتا۔

تَسَوَّلُ الشَّيْءُ: لیتا۔ مِّنْ يَدِهِ شَيْئًا: لیتا۔ پکڑنا۔ کہا جاتا ہے "تَسَوَّلْتُ بِنَا الرَّكَّابِ مَسْكَانٌ كَذَا" سوار یوں نے ہم کو فلاں جگہ پہنچا دیا۔

النَّائِلُ: فَا۔ مصدر۔ عطیہ۔ بھلائی۔ السَّائِلَةُ: النَّائِلُ: کا مَوْثُوكٌ۔ قریش کے ایک بت کا نام۔

النَّوَالُ: داد و دہش۔ حصہ۔ درستی اور کہا جاتا ہے "نَوَالِكٌ اَنْ تَفْعَلَ كَذَا" تمہارے لئے مناسب ہے کہ ایسا کرو۔

النَّالُ: داد و دہش۔ زَجَلٌ نَالٌ: سخی مرد یا بہت بخشش والا اور کہا جاتا ہے "زَجَلَانٌ نَسَالَانٌ وَرِجَالٌ اَنْوَالٌ".

النَّوَالُ: نمس۔ بیٹے والی وادی۔ بننے والے کی کپڑا لپیٹنے کی لکڑی اور کہا جاتا ہے "نَوَالِكٌ اَنْ تَفْعَلَ كَذَا" تمہارے لئے مناسب ہے کہ ایسا کرو۔ "وَمَسَالُوُوكٌ اَنْ

تَفْعَلَ كَذَا" تمہارے لئے مناسب نہیں کہ اس کو حاصل کرو یا ایسا کرو۔ النُّوَالَةُ: نَالٌ: کا اسمِ مَرَّةٌ۔ داد و دہش۔ کہا جاتا ہے "مَا اَصَبْتُ مِنْهُ نُوَالَةً" میں نے اس کا عطیہ نہیں پایا۔ یوسر۔

اَلْمَسْأَلَةُ: قربانِ مقدس میں حاضر ہونا یعنی عیسائی مذہب کے نزدیک۔ النُّوَالَةُ: داد و دہش۔ عطیہ۔

السَّمْوَالُ وَالمَسْوَالُ: بننے والے کی کپڑا لپیٹنے کی لکڑی یا کرک۔ جِ مَسَاوِيْلُ. السَّمْوَالُ: کپڑا بننے والا اور کہا جاتا ہے "هَمَّ عَلِي مَسْوَالٌ وَاحِدٌ" وہ سب ایک ہیں قسم کی عادت کے ہیں "وَلَا اَذْرِي عَلِي اَي مَسْوَالٍ هُوَ" میں نہیں جانتا وہ کس طریقہ پر ہے "وَأَفْعَلُ عَلِي هَذَا الْمَسْوَالِ" اس طریقہ پر کرو۔ "وَمَسْوَالِكٌ اَلَّا تَفْعَلَ كَذَا" تمہارے لئے مناسب ہے کہ ایسا نہ کرو۔

نَاقَةٌ يَنْوُمُهُ نَوْمًا: سونے میں غالب ہونا۔ کہا جاتا ہے "نَاوُمِيْسِي فَئِمَّةٌ" اس نے سونے میں مجھ سے مقابلہ کیا میں غالب رہا۔ اَلنَّوَالُوْنَ: گاڑی یا کشتی کی اجرت۔ (یونانی لفظ)۔

نَامٌ يَنْامُ نَوْمًا وَنِيَامًا: اوجھٹنا یا سونا۔ مرنا۔ اور اسمِ النِّيْمَةِ: نَامَتِ السُّوُقُ: بازار کا نام پڑنا۔ السَّرْمِيْحُ: ہوا کا زک جانا۔ السَّارُ: آگ کا بجھنا۔ نَامَ الْبَحْرُ: سمندر کا ٹھہر جانا۔ السَّرْمِيْحُ: رگ کا حرکت نہ کرنا۔ السَّرْمِيْحُ: کپڑا پرانا ہونا۔ الرَّجُلُ: اللہ کے لئے تو وضع و خاکساری کرنا۔ اِلَيْهِ: اطمینان کرنا۔ عَن حَاجَتِهِ: غافل ہونا۔ بے پرواہ ہونا اور کہا جاتا ہے "نَامَ هَشْمٌ" وہ بے ہمت ہے "وَفَلَانٌ لَا يَسَامُ وَلَا يُنِيْمُ" فلاں نہ سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے۔ نَوْمَةٌ تَسُوِيْلًا: سلاٹا۔ نَوْمُ الرَّجُلُ: خوب اچھی طرح سونا۔ اِلَايْلِ: اُونٹوں کا مرنا۔ نَاوَمَةٌ مَسْأَلَةٌ: سونے میں غالب ہونا۔

تَفْعَلَ كَذَا" تمہارے لئے مناسب نہیں کہ اس کو حاصل کرو یا ایسا کرو۔

النُّوَالَةُ: نَالٌ: کا اسمِ مَرَّةٌ۔ داد و دہش۔ کہا جاتا ہے "مَا اَصَبْتُ مِنْهُ نُوَالَةً" میں نے اس کا عطیہ نہیں پایا۔ یوسر۔

اَلْمَسْأَلَةُ: قربانِ مقدس میں حاضر ہونا یعنی عیسائی مذہب کے نزدیک۔ النُّوَالَةُ: داد و دہش۔ عطیہ۔

السَّمْوَالُ وَالمَسْوَالُ: بننے والے کی کپڑا لپیٹنے کی لکڑی یا کرک۔ جِ مَسَاوِيْلُ. السَّمْوَالُ: کپڑا بننے والا اور کہا جاتا ہے "هَمَّ عَلِي مَسْوَالٌ وَاحِدٌ" وہ سب ایک ہیں قسم کی عادت کے ہیں "وَلَا اَذْرِي عَلِي اَي مَسْوَالٍ هُوَ" میں نہیں جانتا وہ کس طریقہ پر ہے "وَأَفْعَلُ عَلِي هَذَا الْمَسْوَالِ" اس طریقہ پر کرو۔ "وَمَسْوَالِكٌ اَلَّا تَفْعَلَ كَذَا" تمہارے لئے مناسب ہے کہ ایسا نہ کرو۔

نَاقَةٌ يَنْوُمُهُ نَوْمًا: سونے میں غالب ہونا۔ کہا جاتا ہے "نَاوُمِيْسِي فَئِمَّةٌ" اس نے سونے میں مجھ سے مقابلہ کیا میں غالب رہا۔ اَلنَّوَالُوْنَ: گاڑی یا کشتی کی اجرت۔ (یونانی لفظ)۔

نَامٌ يَنْامُ نَوْمًا وَنِيَامًا: اوجھٹنا یا سونا۔ مرنا۔ اور اسمِ النِّيْمَةِ: نَامَتِ السُّوُقُ: بازار کا نام پڑنا۔ السَّرْمِيْحُ: ہوا کا زک جانا۔ السَّارُ: آگ کا بجھنا۔ نَامَ الْبَحْرُ: سمندر کا ٹھہر جانا۔ السَّرْمِيْحُ: رگ کا حرکت نہ کرنا۔ السَّرْمِيْحُ: کپڑا پرانا ہونا۔ الرَّجُلُ: اللہ کے لئے تو وضع و خاکساری کرنا۔ اِلَيْهِ: اطمینان کرنا۔ عَن حَاجَتِهِ: غافل ہونا۔ بے پرواہ ہونا اور کہا جاتا ہے "نَامَ هَشْمٌ" وہ بے ہمت ہے "وَفَلَانٌ لَا يَسَامُ وَلَا يُنِيْمُ" فلاں نہ سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے۔

نَوْمَةٌ تَسُوِيْلًا: سلاٹا۔ نَوْمُ الرَّجُلُ: خوب اچھی طرح سونا۔ اِلَايْلِ: اُونٹوں کا مرنا۔ نَاوَمَةٌ مَسْأَلَةٌ: سونے میں غالب ہونا۔

نَامٌ يَنْامُ نَوْمًا وَنِيَامًا: اوجھٹنا یا سونا۔ مرنا۔ اور اسمِ النِّيْمَةِ: نَامَتِ السُّوُقُ: بازار کا نام پڑنا۔ السَّرْمِيْحُ: ہوا کا زک جانا۔ السَّارُ: آگ کا بجھنا۔ نَامَ الْبَحْرُ: سمندر کا ٹھہر جانا۔ السَّرْمِيْحُ: رگ کا حرکت نہ کرنا۔ السَّرْمِيْحُ: کپڑا پرانا ہونا۔ الرَّجُلُ: اللہ کے لئے تو وضع و خاکساری کرنا۔ اِلَيْهِ: اطمینان کرنا۔ عَن حَاجَتِهِ: غافل ہونا۔ بے پرواہ ہونا اور کہا جاتا ہے "نَامَ هَشْمٌ" وہ بے ہمت ہے "وَفَلَانٌ لَا يَسَامُ وَلَا يُنِيْمُ" فلاں نہ سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے۔

نَوْمَةٌ تَسُوِيْلًا: سلاٹا۔ نَوْمُ الرَّجُلُ: خوب اچھی طرح سونا۔ اِلَايْلِ: اُونٹوں کا مرنا۔ نَاوَمَةٌ مَسْأَلَةٌ: سونے میں غالب ہونا۔

نَامٌ يَنْامُ نَوْمًا وَنِيَامًا: اوجھٹنا یا سونا۔ مرنا۔ اور اسمِ النِّيْمَةِ: نَامَتِ السُّوُقُ: بازار کا نام پڑنا۔ السَّرْمِيْحُ: ہوا کا زک جانا۔ السَّارُ: آگ کا بجھنا۔ نَامَ الْبَحْرُ: سمندر کا ٹھہر جانا۔ السَّرْمِيْحُ: رگ کا حرکت نہ کرنا۔ السَّرْمِيْحُ: کپڑا پرانا ہونا۔ الرَّجُلُ: اللہ کے لئے تو وضع و خاکساری کرنا۔ اِلَيْهِ: اطمینان کرنا۔ عَن حَاجَتِهِ: غافل ہونا۔ بے پرواہ ہونا اور کہا جاتا ہے "نَامَ هَشْمٌ" وہ بے ہمت ہے "وَفَلَانٌ لَا يَسَامُ وَلَا يُنِيْمُ" فلاں نہ سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے۔

نَوْمَةٌ تَسُوِيْلًا: سلاٹا۔ نَوْمُ الرَّجُلُ: خوب اچھی طرح سونا۔ اِلَايْلِ: اُونٹوں کا مرنا۔ نَاوَمَةٌ مَسْأَلَةٌ: سونے میں غالب ہونا۔

نَامٌ يَنْامُ نَوْمًا وَنِيَامًا: اوجھٹنا یا سونا۔ مرنا۔ اور اسمِ النِّيْمَةِ: نَامَتِ السُّوُقُ: بازار کا نام پڑنا۔ السَّرْمِيْحُ: ہوا کا زک جانا۔ السَّارُ: آگ کا بجھنا۔ نَامَ الْبَحْرُ: سمندر کا ٹھہر جانا۔ السَّرْمِيْحُ: رگ کا حرکت نہ کرنا۔ السَّرْمِيْحُ: کپڑا پرانا ہونا۔ الرَّجُلُ: اللہ کے لئے تو وضع و خاکساری کرنا۔ اِلَيْهِ: اطمینان کرنا۔ عَن حَاجَتِهِ: غافل ہونا۔ بے پرواہ ہونا اور کہا جاتا ہے "نَامَ هَشْمٌ" وہ بے ہمت ہے "وَفَلَانٌ لَا يَسَامُ وَلَا يُنِيْمُ" فلاں نہ سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے۔

نَوْمَةٌ تَسُوِيْلًا: سلاٹا۔ نَوْمُ الرَّجُلُ: خوب اچھی طرح سونا۔ اِلَايْلِ: اُونٹوں کا مرنا۔ نَاوَمَةٌ مَسْأَلَةٌ: سونے میں غالب ہونا۔

نَامٌ يَنْامُ نَوْمًا وَنِيَامًا: اوجھٹنا یا سونا۔ مرنا۔ اور اسمِ النِّيْمَةِ: نَامَتِ السُّوُقُ: بازار کا نام پڑنا۔ السَّرْمِيْحُ: ہوا کا زک جانا۔ السَّارُ: آگ کا بجھنا۔ نَامَ الْبَحْرُ: سمندر کا ٹھہر جانا۔ السَّرْمِيْحُ: رگ کا حرکت نہ کرنا۔ السَّرْمِيْحُ: کپڑا پرانا ہونا۔ الرَّجُلُ: اللہ کے لئے تو وضع و خاکساری کرنا۔ اِلَيْهِ: اطمینان کرنا۔ عَن حَاجَتِهِ: غافل ہونا۔ بے پرواہ ہونا اور کہا جاتا ہے "نَامَ هَشْمٌ" وہ بے ہمت ہے "وَفَلَانٌ لَا يَسَامُ وَلَا يُنِيْمُ" فلاں نہ سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے۔

نَوْمَةٌ تَسُوِيْلًا: سلاٹا۔ نَوْمُ الرَّجُلُ: خوب اچھی طرح سونا۔ اِلَايْلِ: اُونٹوں کا مرنا۔ نَاوَمَةٌ مَسْأَلَةٌ: سونے میں غالب ہونا۔

نَامٌ يَنْامُ نَوْمًا وَنِيَامًا: اوجھٹنا یا سونا۔ مرنا۔ اور اسمِ النِّيْمَةِ: نَامَتِ السُّوُقُ: بازار کا نام پڑنا۔ السَّرْمِيْحُ: ہوا کا زک جانا۔ السَّارُ: آگ کا بجھنا۔ نَامَ الْبَحْرُ: سمندر کا ٹھہر جانا۔ السَّرْمِيْحُ: رگ کا حرکت نہ کرنا۔ السَّرْمِيْحُ: کپڑا پرانا ہونا۔ الرَّجُلُ: اللہ کے لئے تو وضع و خاکساری کرنا۔ اِلَيْهِ: اطمینان کرنا۔ عَن حَاجَتِهِ: غافل ہونا۔ بے پرواہ ہونا اور کہا جاتا ہے "نَامَ هَشْمٌ" وہ بے ہمت ہے "وَفَلَانٌ لَا يَسَامُ وَلَا يُنِيْمُ" فلاں نہ سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے۔

نَوْمَةٌ تَسُوِيْلًا: سلاٹا۔ نَوْمُ الرَّجُلُ: خوب اچھی طرح سونا۔ اِلَايْلِ: اُونٹوں کا مرنا۔ نَاوَمَةٌ مَسْأَلَةٌ: سونے میں غالب ہونا۔

نَامٌ يَنْامُ نَوْمًا وَنِيَامًا: اوجھٹنا یا سونا۔ مرنا۔ اور اسمِ النِّيْمَةِ: نَامَتِ السُّوُقُ: بازار کا نام پڑنا۔ السَّرْمِيْحُ: ہوا کا زک جانا۔ السَّارُ: آگ کا بجھنا۔ نَامَ الْبَحْرُ: سمندر کا ٹھہر جانا۔ السَّرْمِيْحُ: رگ کا حرکت نہ کرنا۔ السَّرْمِيْحُ: کپڑا پرانا ہونا۔ الرَّجُلُ: اللہ کے لئے تو وضع و خاکساری کرنا۔ اِلَيْهِ: اطمینان کرنا۔ عَن حَاجَتِهِ: غافل ہونا۔ بے پرواہ ہونا اور کہا جاتا ہے "نَامَ هَشْمٌ" وہ بے ہمت ہے "وَفَلَانٌ لَا يَسَامُ وَلَا يُنِيْمُ" فلاں نہ سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے۔

نَوْمَةٌ تَسُوِيْلًا: سلاٹا۔ نَوْمُ الرَّجُلُ: خوب اچھی طرح سونا۔ اِلَايْلِ: اُونٹوں کا مرنا۔ نَاوَمَةٌ مَسْأَلَةٌ: سونے میں غالب ہونا۔

انسانہ انصاف: سلا نا۔ نل کرنا۔ کہا جاتا ہے
”طَعْنْتُ فَرِيْبِيْ فَاَنْتَمْتُ“ میں نے اپنے ہمسر
کو نیزہ مار کر نل کر دیا۔ انسا م زیندا: سوتا ہوا
پانا۔

تَسَاوَمٌ تَسَاوَمًا: اپنے آپ کو سوتا ہوا ظاہر
کرنا۔ نیند چاہنا۔ اِلَيْهِ: مطمئن ہونا۔
سکون اختیار کرنا۔

اِسْتِنَامٌ اِسْتِنَامَةً الرَّجُلُ: سونا۔ نیند چاہنا۔
اپنے آپ کو سوتا ہوا ظاہر کرنا۔ اِلَيْهِ:
سونے والے کی طرح مطمئن ہونا۔ اِلَيْهِ
الشِّيْ: مائوس ہونا۔

النَّايِمُ: قا۔ سونے والا۔ لَيْتَهُ والا۔ ج نيام
وَنَوْمٌ وَنَيْمٌ وَنَيْمٌ وَنَوْمٌ وَنَوْمٌ اور کہا
گیا ہے کہ نَوْمًا جمع ہے اور کہا جاتا ہے
”لَيْلٌ نَائِمٌ“ گہری نیند والی رات۔

النَّايِمَةُ النَّايِمَةُ: کامونٹ۔ ج نَوْمٌ:
موت۔ سانپ۔

النَّوْمُ: بہت سونے والا۔ کہا جاتا ہے
”زَجَلْ نَوْمٌ وَاَمْرًا نَوْمٌ“
النَّوْمُ: نیند۔ نیند کی بیماری۔

النَّوْمُ: نیند۔ نائیم: کی جمع۔ یا اسم جمع جیسا کہ
گزر چکا رَجُلٌ نَوْمٌ وَنَوْمٌ: بہت سونے والا
مرد۔

النَّيْمُ: لباس شب خوابی۔ پوسٹین اور بعض
کے نزدیک سینہ تک کی چھوٹی پوسٹین۔ کامل
نعت۔ وہ شخص جس سے اُنس حاصل کیا
جائے۔ ایک نرم کائے والا درخت جس
کے پتے چھوٹے ہوتے ہیں اور پنپنے کے
برابر اس کے دانے ہوتے ہیں اور کھٹے
ہوتے ہیں اور جب پک جاتے ہیں تو
کالے پڑ جاتے ہیں اور پیٹھے ہو جاتے ہیں۔
کہا جاتا ہے يَنَامُ فُلَانٌ یعنی اے بہت سونے
والے اور یہ ندا ہی کے لئے خاص ہے۔

النَّوْمَةُ: نام۔ کا اسم مرۃ۔ ج نَوْمَاتُ.
النَّيْمَةُ: اسم ہے نام کا۔ کہا جاتا ہے ”صَالَهُ
يَسْمَةُ لَيْلِيَّةٌ“ اس کے پاس ایک رات کا
گزارہ نہیں ہے۔

النَّوْمَةُ: وہ شخص جس کی پرواہ نہ کی جائے۔
النَّوْمَةُ: بہت سونے والا۔ غافل۔ گنہام۔
النَّوْمِيْمُ: غافل۔ گنہام۔

الْمَنَامُ: نیند۔ سونے کی جگہ۔ خواب ج
مَنَامَاتُ.

الْمَنَامَةُ: سونے کی جگہ۔ لباس شب خوابی۔
قبر۔

الْمَنَامُ وَالْمُسْتَمَامُ: پست جگہ جہاں پانی ٹھہر
جائے۔
طَعَامٌ مَّنَوْمَةٌ: خواب آور کھانا۔

نُونٌ نُونًا: حرف نون لکھنا۔ اَلْكَلِمَةُ: کلمہ
پر تھوین لگانا۔

النُّونُ: حروف مابائی میں سے ایک حرف جس
کے عدد ۵۵ ہیں اور حروف زوائد میں سے
ہے ج نُونَاتُ وَاَنْوَانُ.

النُّونُ: دووات۔ مچھلی۔ ج يَنْسَانُ اَنْوَانُ:
تلوار کی دھار۔ تلوار۔ ذُو النُّونِ: لقب یونس
علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا۔ عرب کی
ایک تلوار کا نام۔ ذُو النُّونِيْنِ: معتقل بن
خولید کی تلوار کا نام۔

السُّنُونُ: مچھلی۔ عمدہ بات۔ چھوٹے بچے کی
ٹھوڑی کا گڑھا۔ ج نُونَاتُ.

نَاةٌ نَيْوَةٌ نَوْهَا النَّبَاثُ وَغَيْرُهُ: بلند ہونا۔
نَاهَتْ النَّهَامَةَ: اُلُوکا سر اٹھا کے چیخنا۔ نَهَتْ
بِالشَّيْ: اُدنچا کرنا۔

نَاهَتْ نَنْوَةٌ وَتَنَاهَتْ نَوْهَا نَفْسُهُ عَنِ الشَّيْ:
رک جانا۔ انکار کر کے چھوڑ دینا۔

نَوَْةٌ تَنْوِيْهَا الشَّيْ: بلند کرنا۔ بفلان: بلند
آواز سے پکارنا۔ کسی کا نام بلند کرنا۔
تعریف کرنا۔ تعظیم کرنا اور کہا جاتا ہے
”نَوَّهْتُ بِالْحَدِيْثِ“ میں نے بلند آواز سے
بات کی۔ نَوْهُ بِسَائِسِيْمِهِ: نام لے کر بلانا۔
پکارنا۔

تَنْوَةٌ تَنْوُهُا: بلند ہونا۔
النَّوَةُ وَالنَّوَةُ: کسی چیز سے رکنا۔
السَّوْهُةُ نَاةٌ: کا اسم مرۃ۔ خوراک دن رات
میں صرف ایک مرتبہ۔

النَّوْمَةُ: بدن کی طاقت۔
النَّوَاهَةُ: لوحہ کرنے والی عورت۔ بین
کرنے والی عورت۔

النَّوَهُ: بین کرنے والی عورتیں کہا جاتا ہے
”هُوَ اَنْوَهُ مِنْ فُلَانٍ“ وہ فلاں سے زیادہ
شریف ہے۔

نَوَى الشَّيْ يَنْوِيْهِ نَوَاةً وَنِيَّةً وَنِيَّةً: ارادہ
کرنا۔ نَوَى الْقَوْمُ مَنَوَلًا بِكَذَا: قصد کرنا۔
ارادہ کرنا۔ اَللَّهُ فُلَانًا: حفاظت کرنا۔

مسافر سے کہا جاتا ہے ”نَوَاكَ اللُّهُ“ یعنی
اللہ تمہاری حفاظت کرے اور تمہارا سفر میں
ساتھی ہو۔ وَنَوَاكَ اللُّهُ بِالْخَيْرِ: اللہ تم کو
بھلائی پہنچائے۔ (نَوَى) فُلَانٌ مِنْ
مَكَانٍ اِلَى اٰخَرَ: ایک جگہ سے دوسری جگہ
منتقل ہونا۔ اَلنَّوَاةُ: مچھلی پھینکانا۔ نِيَّةٌ
وَنَوَى) (نَوَى) الْمُسَافِرُ: دور ہونا۔ (نِيَّةٌ وَنَوَاةٌ
وَ نَوَاةٌ) النَّاقَةُ: موٹی ہونا۔ صفت نَوَاةٌ و
نَاوُ.

نَوَى تَنْوِيَةً خَاصَّةً: حاجت پوری کرنا۔
نَوَى الْبُسْرَةَ: مچھلی والی ہونا۔ نَوَى فُلَانٌ:
مچھلی پھینکانا۔ فُلَانًا: کسی کی نیت پر چھوڑ
دینا۔

نَاوَاهُ مُنَاوَاةً: دشمنی کرنا (اس کی اصل ہمزہ
سے ہے)

اَنْوَى اِنْوَاءَ الرَّجُلِ: دور ہونا یا زیادہ سفروں
والا ہونا۔ خَاصَّةً: حاجت پوری کرنا۔
اَنْوَى الْبُسْرَةَ: مچھلی پھینکانا۔ اَنْوَى فُلَانٌ:
مچھلی پھینکانا۔

تَنْوَى تَنْوِيًا الشَّيْ: قصد کرنا۔
اِنْوَاءُ اِنْوَاءٍ: قصد کرنا۔ کہا جاتا ہے ”اِنْوَاءُ
بِنَوَاتِهِ“ اس نے اس کی حاجت پوری کر دی
اِنْوَى الْقَوْمُ: ایک شہر سے دوسرے شہر میں
منتقل ہونا۔ اَلْقَوْمُ بِمَوْضِعٍ كَذَا:
اقامت کرنا۔ اَلْقَوْمُ مَنَوَلًا بِمَكَانٍ كَذَا:
قصد کرنا۔

اِسْتَنْوَى اِسْتَنْوَاءَ الرَّجُلِ: مچھلی پھینکانا۔
السَّوَايُ: قا۔ وہ شخص جو منتقل ہونے کا پختہ

ارادہ کرے۔ اونٹنی کا کوہان۔ کہا جاتا ہے
"فَلَانٌ نَادِي الْقَوْمِ وَمُنْتَوَاهُمْ" فلاں قوم کا
ذی رائے اور ان کے امور کا مالک ہے۔
النَّوَاءُ: کھجور کی گھٹلیوں کا بیچنے والا۔

النَّوِيُّ: مہس۔ دوری۔ وہ جگہ قریب یا بعید
جہاں کا مسافر ارادہ کرے (اس معنی میں
مَوْنَثُ ہے) گھر۔ گھٹلیاں (اس معنی میں
مذکر و مؤنث دونوں ہے) کہا جاتا ہے
"اسْتَقَرَّتْ نَوَى الْقَوْمِ بِمَوْضِعٍ كَذَا
وَسَمَّاهُ" (یعنی فلاں جگہ میں قوم نے اقامت
کی)۔

النِّي: مہس۔ چربی۔

النِّي: مہنا یا۔

النَّوَاءُ: گھٹلی ج نوئی و نوایات و حج انواء
و نوئی و نوئی۔

النِّيَّةُ: قصد۔ ارادہ۔ دل کا عزم۔ جس کو
انسان موافق سمجھے اس کی طرف اٹھنا۔ امر
حاجت۔ کہا جاتا ہے "لَيْسَ فِيهِ نِيَّةٌ فَلَانٌ
يَنِيَّةٌ" فلاں کے گھر میں میری ایک ضرورت
ہے۔ وہ جگہ قریب یا بعید جہاں کا مسافر
ارادہ کرے۔ کہا جاتا ہے "سَطَّطْتُ بِهِمْ نِيَّةً
قَدْفٌ" رحلتہ بعیدہ نے ان کو دور پھینک
دیا "وَنَوَى نِيَّةً قَدْفًا" انہوں نے دور کی جگہ کا
ارادہ کیا اور کبھی یاہ میں تخفیف کی جاتی ہے
کہا جاتا ہے نِيَّةٌ رَجَّيْنَا۔

النَّوِيُّ: ہم ارادہ سا بھی۔

نَاءٌ نَيْيٌ نِيًّا وَنَيْوَةٌ أَوْ نَيْوَةٌ اللَّحْمُ وَغَيْرُهُ:
گوشت وغیرہ کا پکا رہنا۔

نِيًّا تَنْبِيًّا الْأَمْرُ: ناقص طور سے کرنا۔

أَنْيًّا اللَّحْمُ إِنْيَاءً: گوشت کو پکا رکھنا۔

النِّيُّ مِنْ اللَّحْمِ: پکا یا نیم پختہ گوشت۔ اور
نِيٌّ اِبْدَالٌ وَادْقَامٌ سَهْمٌ بَعْضُهُ جَانِزٌ هَبْ - النِّيُّ هَبٌّ
خاص دودھ۔

نَابَةٌ نَيْبَةٌ نَيْبًا: دانت مارنا۔

نَيْبَتٌ نَيْبًا النَّاقَةُ: اونٹنی کا بوڑھی ہونا۔

نَيْبُ النَّبْتِ: نباتات کی جڑیں پھوٹنا.....

فَلَانٌ السَّهْمُ: تیر پر دانت مار کر تخی معلوم

کرنا اور دانتوں کا نشان ڈالنا..... زَيْبٌ:
دانت کا ٹٹا۔ دانت چینا..... فَلَائِنَا: دانت
سے کا ٹٹا۔ کہا جاتا ہے "ظَفَرٌ فِيهِ الشَّعْبُ
وَيَسْبُ" درندہ نے اس کے اندر ناخن اور
دانت گھسا دیا۔

تَيَّبَ تَيْبًا التَّبْتُ: جڑیں لگنا..... الشَّيْبُ:
بڑھا یا ظاہر ہونا۔

النَّابُ: چمکی کا دانت (مَوْنَثُ) رَجَّيْنَا
وَيُسُوبُ وَأَنْبِيبُ. النَّابُ: بوڑھی اونٹنی اور
اس کی تصغیر نَيْبٌ. رَجَّيْنَا النَّابَ وَنَيْبًا
نَابٌ الْقَوْمِ: سردار قوم رَجَّيْنَا النَّابَ
النَّابُ: بوڑھی اونٹنی۔

الانْيَابُ: موٹے موٹے دانتوں والا۔

مَوْنَثُ نَيْبًا رَجَّيْنَا نَيْبًا:

نَاتٌ يَسْبُتُ نَيْبًا: کمزوری سے ڈگمگاتے
ہوئے چلنا۔

نَاحٌ يَنْبِيحُ نَيْحًا وَنَيْحَانَا الْغَضَبُ: نَبِيٌّ كَمَا
بَجَلْنَا (..... نَيْحًا) الْعَظْمُ: ہڈی کا سخت
ہونا۔ مضبوط ہونا۔

نَيْحٌ تَنْبِيحًا اللَّهُ عَظْمُهُ: ہڈی مضبوط کرنا۔

رِيْزَةٌ رِيْزَةً كَرْنَا (اضداد میں سے ہے) کہا
جاتا ہے مَا نَيْحَتْهُ بَخِيْرٌ: میں نے اس کو کچھ
نہیں دیا۔ وَلَا نَيْحَ اللَّهُ عِظَامَهُ: اللہ اس کی
ہڈیوں کو سخت کرے اور نہ مضبوط۔

النَّيْحُ: سخت۔ کہا جاتا ہے "عَظْمٌ نَيْحٌ" سخت
ہڈی۔

نَارَ النَّوْبِ نَيْبَةٌ نَيْبًا وَنَيْبَةٌ تَنْبِيْرًا وَانَارَةٌ
انَارَةٌ: کپڑا بننا۔ منسج کرنا۔

النَّائِبُ: فال۔ لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے
والا۔

النَّيْسَارُ: کپڑے میں نقش و نگار کرنے والا۔

کپڑے میں گوٹ لگانے والا۔

النَّيْرُ: بیلوں کے کندھے پر رکھنے کا جو۔ رَجَّيْنَا
النَّيْرَ: و نِيْرَانُ النَّيْرُ: نے۔ اکٹھے دھاگے۔

کپڑے کے نقش و نگار۔ کپڑے کا چھوڑ۔

رَاسًا كَرْنَا رَاسًا: راست کی نمایاں کھائی۔ کہا
جاتا ہے "رَجَّيْنَا دُونِيْرِيْنِ" اپنے ساتھی سے

دکنی قوت والا۔ "حَزْبٌ ذَاتُ نَيْسْرِيْنِ"
سخت جنگ "وَسَاقَةٌ ذَاتُ نَيْسْرِيْنِ وَأَنْبَارُ"
بوڑھی اونٹنی جس میں ابھی جوانی کچھ باقی ہو
اور ابھی اس کا استعمال عورت کے لئے بھی
ہوتا ہے۔

النَّيْرُ وَالنَّيْرَةُ اسم ہے نَيْرِ النَّوْبِ كَالنَّيْرَةِ:
بنائی کے آلات میں سے ایک آلہ کا نام کہتے
ہیں "مَسَاكِنُ بَسَاتِيْرٌ وَلَا لُحْمَةٌ وَلَا نَيْرَةٌ"
اس شخص کے لئے جو نہ نافع ہو نہ نقصان دہ۔

کہا جاتا ہے "هَذَا نَيْسْرٌ مِنْ ذَاكَ" یہ اس
سے واضح تر ہے۔ کہا جاتا ہے "نَيْسْرُهُمْ
مُنَايِرَةٌ" ان کے درمیان فساد ہے۔

السَّمِيْرُ: موٹی کھال۔ نَوْبٌ مُنَيِّرٌ: دوسوٹی
کپڑا۔

النَّيْرُ: چمچل خوری کرتا۔ کلام میں
گڑ بڑ کرنا۔ گھڑنا..... السَّمِيْرُ النَّيْرُ فَوْقَ
السَّمِيْرِ: ہوا کا کسی چیز کے اوپر خاک چڑھا
دینا اور دھاری دھاری جیس بنا دینا۔

النَّيْرُ: برائی۔ چمچل خوری۔ چست و
چابک مرد۔ اور کہا جاتا ہے "رَجَّيْنَا نَيْسْرًا
وَدُونِيْرِيْبًا" یعنی بدکار مرد۔

نَيْرَجٌ نَيْرَجَةٌ الرَّجْلُ: چمچل خوری کرتا۔

النَّيْرَجُ: چمچل خور۔ کپڑے کا نقش و نگار۔ ہل
کی پھالی۔ غلہ گانے کا ایک آلہ خواہ لکڑی کا
ہو یا لوہے کا۔ رِيْجٌ نَيْرَجٌ تَمِيْرٌ هُوَ امْرَأَةٌ
نَيْرَجٌ: چالاک و مکار عورت اور کہا جاتا ہے

"عَدَا نَيْرَجًا" متردد ہو کر جلدی جلدی
دوڑا۔ اور ہر جلدی کو نَيْرَجٌ کہتے ہیں۔

النَّيْرُوْرُ: عِنْدَ الْفَرَسِ: تھکی سال کا پہلا
دن۔ خوشی کا دن عموماً۔

النَّيْرُوكُ: چھوٹا نیزہ۔ نیزے کی مانند شعلہ
اور یہ ٹوٹے ہوئے ستارے کی ایک قسم
ہے۔ رَجَّيْنَا رُوكًا (دخیل)

نَيْسَبٌ وَالنَّيْسَبُ وَالنَّيْسَبَانُ: دیکھئے مادہ
ان۔ س۔ ب۔


نَيْسَانُ: ماہ اپریل۔

النَّبْصُ: کمزور حرکت۔ موٹی تہی۔

نَاصٌ يَبِيضُ نَيْضًا الْعَرُوقُ : رگ کا حرکت کرنا۔
 نَاطٌ يَنْبِطُ نَيْطًا وَانْتِاطٌ اِنْتِاطًا : دُور ہونا۔
 النَيْطُ : مِص۔ جتاڑہ۔ موت۔ مدت۔ کہا جاتا ہے "أَمَاتَهُ نَيْطُهُ" یعنی اس کی مدت آگئی "وَرَمَاهُ اللَّهُ بِالنَيْطِ" اللہ نے اسے موت دی۔ "وَوَطَّعَنَ فُلَانٌ فِي نَيْطِهِ" فلاں نے اس کے جتاڑہ میں نیزہ مارا یعنی وہ مر گیا۔
 نَاعٌ يَبِينُ نَيْعًا الْغَضَنُ : بُنْی کا جھلنا صفت نابع۔
 النَوَائِعُ : جھگی ہوئی شامیں۔
 نَالٌ يَنْبِلُ وَيَنَالُ نَيْلًا وَنَالًا وَنَالَةٌ الْمَطْلُوبُ : پانا۔ حاصل کرنا۔ صفت فاعلی نَائِلٌ وَصَفَتْ مَفْعُولِي مَنِيْلٌ اور امر حاضر کا صیغہ نل ونل : ہوگا۔ نال من فلان : گالی دینا عیب لگانا اور کہا جاتا ہے "نَالٌ مِنْ عَبْدِوَهٍ" مَطْلُوبَةٌ : اس نے اپنے دشمن سے اپنا مطلوب حاصل کر لیا اور کبھی دو مفعول کی طرف اُحد یہ ہوتا ہے جیسے "نَالَةٌ مَطْلُوبَةٌ"

اس نے اس کا مطلوب حاصل کرا دیا۔ کہا جاتا ہے "نَالْنِي مِنْ فُلَانٍ" معروف فلاں سے مجھے بھلائی پہنچی۔ "وَنَالٌ مِنْ عِرْضٍ فُلَانٌ" یعنی اس نے اس کی بے عزتی کی۔ وَنَالُ الرَّجُلِ كُوج کا وقت قریب ہونا۔ "وَأَمَّا نَالٌ لَهُمْ أَنْ يَفْقَهُوْا" کیا ان کے لئے سمجھ کا وقت نہیں آیا۔
 نَالٌ اِنْسَالَةٌ فُلَانًا الشَّيْءُ وَلِفُلَانٍ الشَّيْءُ : حاصل کرانا۔
 النَائِلُ : فا۔ جو حاصل کیا جائے۔ کہا جاتا ہے "أَصْبَتْ مِنْهُ نَائِلًا" مجھے اُس سے انعام ملا۔
 النَيْلُ : مِص۔ جو حاصل کیا جائے۔ کہا جاتا ہے أَصْبَتْ مِنْهُ نَيْلًا۔
 النَيْلُ : مِصر کے ایک دریا کا نام۔ ایک قسم کی گھاس جس سے نیلا رنگتے ہیں۔ ایک دوسری قسم کی گھاس جس کے پتے چھوٹے چھوٹے اور تیز سخت ہوتا ہے۔ النَيْلُ : بادل۔
 النَّالَةُ : مِص۔ گھر کا مِخْن۔

النُّوْلَةُ وَالنَّيْلَةُ : جو حاصل کیا جائے۔
 النَيْلُجُ وَالنَّيْلُجُ : چربی کا کاجل جس کو گوند نے میں استعمال کیا جائے اور یہ معرب ہے اور عربی اس کی نُؤذُرُ ہے۔
 النَيْلُجُ : نیل کا رنگ۔
 النَيْلُوفَرُ وَالنَّيْلُوفَرُ وَالنَّيْلُوفَرُ : جمل نیلوفر (جدید)
 النَّيْلُونُ : نیلون جس سے کپڑے وغیرہ تیار ہوتے ہیں۔
 النَّيْمِرُشْتُ اِدُه بھنا۔ کہا جاتا ہے : "بَيْضٌ نَمْبِرُشْتُ" اور عوام کہتے ہیں : "بَيْضٌ بِرُشْتُ"۔
 نَاهٌ يَنَاهُ نَيْهًا الشَّيْءُ : بلند ہونا۔ پسند آنا۔
 النَّاهُ : بلند۔ نمایاں۔ کہا جاتا ہے "نَفَسٌ نَاهَةٌ" رکنے والا نفس۔
 النَّيْمُ : ن دم میں ذکر کیا گیا۔
 النَّيْمُونُ : ایک کیاب گیس جس کی بو اور رنگ نہیں بجلی کے ایندھن میں استعمال ہوتا ہے۔
 النَّائِي : بانسری۔ رَج نَائِيَاتُ (فارسی)



بلہاہٹ۔
 الوئید: سخت۔ اونٹ کی بلہاہٹ۔ بیروں
 کی چاپ جو دور سے سنائی دے اور کہا جاتا
 ہے "مَشِي مَشَاوَيْدًا" وہ متانت و سنجیدگی
 سے چلا (..... وَالسَّوْدَةُ وَالسَّوَادُ) سنجیدگی۔
 متانت۔
 السَّوَادُ: مصیبتیں (اس کی اصل السَّوَادُ:
 ہے)
 وَأَوْبُورٌ وَأَوْبُورَةُ السَّوْبُلِ: گھبراہٹ میں
 ڈالنا..... السَّوْبُلُ وَالسَّوْبُلُ: آگ روشن کرنے
 کے لئے گڑھا جانا (..... وَأَوْبُورٌ) سنجیدگی۔
 فَلَانًا: مصیبت میں ڈالنا۔
 أَوْبُورَةٌ إِنَارًا: نفرت دلانا۔ خبردار کرنا۔
 اسْتَوْبُرْتُ الْإِبِلَ: اونٹوں کا رک کر پہاڑ پر
 چڑھ جانا۔
 الوائِرُ: فنا۔ خوفزدہ۔
 الْإِرَاسَةُ جَ إِزَاتٍ وَإِرُونَ وَالسَّوْبُورَةُ ج
 وَأَوْبُورٌ: آگ سلگانے کی جگہ۔ الْإِرَاسَةُ:
 آگ۔ اوجھ میں پکا ہوا گوشت۔ دھوپ
 میں سکھایا ہوا گوشت۔ دشمنی۔ آگ کی
 بھڑک۔ کوہان کی چرپی۔
 الْوِنَارُ: لپینے کی مٹی نکالنے کے گڑھے۔
 أَرْضٌ وَرَبْرَةٌ: بہت گرمی والی زمین۔
 وَأَصٌ يَشِصُّ وَأَصَابَهُ الْإِرَاضُ: زمین پر
 پکنا۔
 تَوَاصَّ الْقَوْمُ: اکٹھا ہونا۔ پانی پر بھڑکنا۔
 الْوَيْبُصَةُ: جماعت مخلوق کہا جاتا ہے "مسا
 أَدْرَعِي أَيُّ الْوَيْبُصَةِ هُوَ" میں نہیں جانتا کہ

الْوَاحِ وَالْوَاخَةُ: ریگستانی علاقہ میں سبزہ زار
 زمین۔ جِ وَأَخَاتُ.
 وَأَبُ يَيْبُ وَأَنَاوَابَةٌ مِنْ فَلَانٍ: شرم کرنا۔
 شرم کی وجہ سے جھکتنا۔ وَأَبُ يَابٌ وَأَبَةٌ: کھر
 کے کناروں کا سنا۔
 وَيَبُ يُوَابٌ وَأَبًا: غضبناک ہونا۔
 وَأَبَةٌ وَأَتَابُهُ: غضبناک کرنا۔ کسی کے ساتھ
 قابل شرم فعل کرنا۔ ذلت کے ساتھ حاجت
 سے پھیر دینا۔
 إِبَاتٌ إِبَاتًا مَيْنَةً: شرم کرنا۔
 الْإِبَةُ وَالسُّوْبَةُ وَالسُّوْبِيَّةُ وَالسُّوْبِيَّةُ:
 رسوائی۔ عار۔ شرم۔
 السَّوَابُ مِنَ الْقِدَاحِ: بڑا پیالہ..... مِنْ
 السَّحْوَالِ: باہم طے ہوئے کناروں والا
 مضبوط کھر۔ چوڑا۔ بڑا اونٹ۔ جِ أَوَابُ.
 السَّوَابَةُ: پتھر کا گڑھا جس میں پانی جمع ہو
 جائے (..... وَالسَّوْبِيَّةُ) بہت گہرا کنواں۔
 قَدْرٌ وَأَبَةٌ: کشادہ ہانڈی۔
 السُّوْبِيَّاتُ: رسوا کرنے والی باتیں۔
 الْوَأَجُ: سخت بھوک۔
 وَأَدَيْسِدٌ وَأَدَا. الْبَسْتُ: لڑکی کو زندہ درگور
 کرنا۔ صفت مفعولاً وَيَيْدَةٌ وَمَوُؤُودَةٌ
 فَلَانًا: بوجھل کرنا۔
 تَوَادُّو إِسَادَةً فِي الْأَمْرِ: مہلت اور آہستگی
 سے کرنا۔ وَتَوَادَّتْ عَلَيْهِ الْأَرْضُ: زمین کا
 کسی کو چھپا لینا اور غائب کر دینا..... السَّوْرَةُ
 فِي قِيَامِهَا: بوجھل ہونے کی وجہ سے لپکنا۔
 الْوَادُ: مصل۔ سخت آواز۔ دھماکہ۔ اونٹ کی

السَّوَابُ: یہ حرف حروف تہجیری میں سے
 ستائیسواں حرف ہے۔ یہ حرف جوف سے
 ہے۔
 الواو: چند معنی کے لئے مستعمل ہے۔
 (۱) حرف عطف اور اس کے معنی مطلقاً جمع
 کے ہیں۔ جیسے جَاءَ زَيْدٌ وَعَمْرُوٌ۔
 (۲) واو حالیہ۔ جملہ اسمیہ پر جیسے "جَاءَ
 زَيْدٌ وَالشَّمْسُ طَالِقَةٌ" جملہ فعلیہ پر جیسے
 "جَاءَ زَيْدٌ وَقَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ"۔
 (۳) واو استناف جیسے "لَا تَأْكُلِ
 الشَّمْكَ وَتَشْرَبِ اللَّبْنَ"۔
 (۴) واو معیہ جیسے "بِسْرَتِ وَالْجَيْلِ"۔
 (۵) واو جو اس مضارع منصوب کے اوپر
 داخل ہو جوئی کے جواب میں واقع ہو جیسے
 "لَا تَنْهَ عَنِ خَلْقِي وَتَأْتِي بِمَثَلِهِ"۔
 (۶) واو قسم جیسے وَاللَّهِ الْعَظِيمِ۔
 (۷) واو زب: جیسے وَلَيْسَ كَمَنْجُجِ الْبَحْرِ
 أَرْحَى سُدُودُهُ۔
 (۸) واو ضمیر جمع مذکر جیسے قَامُوا۔
 (۹) واو علامت جمع مذکر جیسے "يَلْمُؤُمُونِي
 قَوْمِي"۔
 (۱۰) واو فصل جیسے عَمْرُوٌ كَأَوْدَاحٍ رَفِيعِ
 وَبَرِّي مِثْلَ تَاكْرَمٍ فَرَقَ بُوَجَانِ۔
 (۱۱) واو واژندہ بعد الا جیسے مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا
 وَلَهُ طَمَعٌ أَوْ حَسَدٌ"۔
 واژندہ کے لئے مخصوص ہے جیسے "وَإِزِيدَاهُ"
 یا "وَإِظْهَرَاهُ" اور کبھی نداء حقیقی میں مستعمل
 ہوتا ہے۔

وہ کون ہے۔
 وَأَطَّ يَسِيْطُ وَأَطَا الْقَوْمُ: زیارت کرنا۔
 الشَّيْءُ: جوش میں آنا۔
 السَّوْاطَةُ مِنَ الْأَرْضِ: بلند زمین..... من
 المَاءِ: پانی کی بڑی جگہ۔
 وَالْأَيْسَلُ وَالْأَوْيَلُ وَالْوَوْلُ وَالْوَوَالُ
 وَالْوَوَالُ وَالْوَوَالُ لَمْ يَكُنْ: نجات ڈھونڈنا۔
 إِلَيْهِ: پناہ لینا..... إِلَى الْمَكَانِ: سبقت کرنا۔
 وَالْأَوْلَا: جائے پناہ بنانا..... إِلَى اللَّهِ:
 رجوع کرنا۔ توبہ کرنا (..... وَأَوَّالٌ)
 الْمَكَانِ: تہہ جہی ہوئی بیگنیوں والی ہوتا۔
 وَأَوَّالٌ الْمَكَانِ: تہہ جہی ہوئی بیگنیوں والی
 بنانا۔ وَأَوَّالٌ الْمَكَانِ فِي الْمَكَانِ: او
 الْكَلْبِ: گوبر مینگی سے خراب کرنا۔
 الْوَالُ وَالْمَوْتِلُ وَالْمَوَالَةُ: جائے پناہ۔
 اسْتَوَالَتْ اسْتَيْنَالًا الْإِبِلُ: اونٹوں کا اکٹھا
 ہونا۔
 الْوَالَةُ: اونٹ یا بکریوں کی تہہ بیگنیاں۔
 وَأَمَّهُ يَوْمُهُ تَوَيْسًا: بد شکل کر دینا۔
 وَءَاءَهُ وَءَاءَهُ وَمَوَاءَهُ: موافقت کرنا۔
 تَوَاءَهُ: موافق ہونا۔ مناسب ہونا۔
 اتَّامَتْ إِتَامًا الْمَرْءَةَ: بڑا واں جنا۔ صفت
 مُيَسَّمٌ: اس میں واؤ کی تبدیلی تا سے ہوئی
 ہے۔
 الْوَأَمُ: گرم کرہ۔
 الْوَأَمَةُ: دوسرے کی صنعت کا نقال۔
 الْمُوَأَمُ: بد شکل۔ بڑے سرو والا۔
 الْمُوْتَوِيْمُ: فا۔ غناء مُتَوِيْمٌ: مناسب۔
 وَأَوَّالُ الْكَلْبِ: بھونکنا کہا جاتا ہے "عنا
 سَمِعْتُ الْإِذْ وَغَوْعَةَ الْبَنَابِ وَأَوَّاعَةَ الْكِلَابِ:
 میں نے بھیر پوں کے چیخنے اور کتوں کے بھونکنے
 کے علاوہ کچھ نہیں سنا۔
 وَأَيُّ يَسِيْءُ وَأَيُّ: وعدہ کرنا..... الشَّيْءُ: ذمہ
 دار ہونا۔
 تَوَاءَهُ تَوَائِيًا الْقَوْمُ: اکٹھا ہونا۔
 إِتَائِيًا: وعدہ قبول کرنا۔
 اسْتَوَيْتُ اسْتَيْنَاءَ الرَّجُلِ: وعدہ لینا۔

الْوَأَى: مص۔ وعدہ۔ وہم وگمان۔ لوگوں کی
 تعداد۔
 السَّوْأَى مِنَ السَّوَابِ: تیز رفتار۔ مَوْنُثُ
 وَأَوَّاعَةُ (جیسے کہ فَنَاءَةُ)
 السَّوَيْتَةُ: بڑے پورے۔ بڑے پیٹ والی
 اَوْئِي (..... وَالْوَأِيَةُ) بڑا پیالہ۔ بڑی ہانڈی
 الْوَوَيْتَةُ: موٹی۔ اپنے گھر کی محافظ عورت۔
 وَتُ يَوْتُبُ وَيَا: لڑائی میں حملہ کے لئے تیار
 ہونا۔
 وَبَسَا يَوْبًا وَبَسَا وَبَسَا الْمَتَاعُ: ترتیب سے
 رکھنا۔
 وَبَسَا وَأَوْبًا إِلَيْهِ: اشارہ کرنا۔
 وَبَسَى يَوْبًا وَيَسًا وَبَسَا وَيَوْبِي وَيُوْبِي
 وَإِسَاءَةٌ وَإِسَاءَةٌ وَوَيْسَى يَوْبًا وَبَسَا وَأَوْبًا
 الْمَكَانِ: بہت باز رہنا۔ اسم البئنة عِدَّة
 کی مانند۔
 تَوَيْتُ الْبَلَدَ: شہر کی آب و ہوا کو نا موافق پانا۔
 اسْتَوَيْتُ اسْتَيْنَاءَ الصَّيْدِيَّةِ: باز رہنا پانا۔
 السَّوْبَانُ أَوْبَاءٌ وَالْوَيْسَاءُ أَوْبِيَّةٌ: عام
 بیماری۔
 الْوَيْبِيُّ وَالْوَيْبِيُّ وَالْمَوْبِيُّ: بہت باز رہنا جگہ
 اور ہر ایک کی مَوْنُثُ تاکہ ساتھ۔
 الْمُوْبِيُّ: فا۔ تھوڑا پانی۔
 وَبَسَتْ بَيْتٌ وَبَسَا بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔
 وَبَسَخْنَةُ: جھڑکنا ملامت کرنا۔ عار دلانا۔
 دھمکانا۔
 الْوَيْبِيَّةُ: سرزنش۔ تکلیف دہ ملامت۔
 وَبَسَدَ يَوْبِيْدُ وَبَسَدًا: بد حال اور کم مال والا
 ہونا۔ صفت وَبَسَدٌ: الثَّوْبُ: کپڑا بوسیدہ
 ہونا..... الشَّهَارُ: دن سخت گرم ہونا..... عَلَيْهِ:
 غضبناک ہونا۔
 أَوْبِيْدَةُ إِتَائِدًا: جد کرنا۔
 تَوَيْدَ أَمْسُو الْهَمُّ: نظر لگانے کے لئے معین
 کرنا۔
 الْوَيْدُ: پہاڑ کا گڑھا۔
 الْوَيْدُ: مص۔ بد حالی و سختی زندگانی۔ کہا جاتا
 ہے "فَلَانٌ هُوَ وَيْدٌ" فلاں بد حالی میں ہے

اور کبھی اس مصدر کو بطور وصف کے بھی
 استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں "زَجَلٌ
 وَبَسَدٌ" یعنی بد حال مرد۔ واحد اور جمع دونوں
 کے لئے اور کبھی اَوْبَادُ جمع لاتے ہیں۔
 الْوَيْدُ: گرمی۔ عیب۔ پہاڑ کا گڑھا۔
 الْوَيْدُ: بھوکا (..... وَالْمَوْبِيْدُ) سخت نظر لگانے کا
 سبب بننے والا۔
 قَوْمٌ أَوْبَادٌ: مفلس لوگ۔
 الْمَوْبِيْدُ: قلت مال اور کثرت عیال سے
 بد حال مرد۔
 وَيَسْرُ يَوْبَرُ وَيَوْرًا وَيَوْرًا أَيَارًا: بہت ہنسنے والا
 ہونا۔ صفت وَيَسْرٌ وَأَوْسَرٌ: مَوْنُثُ وَيَسْرَةٌ
 وَيَوْرَاءُ۔
 وَيَوْبِيْرٌ وَيَوْرًا بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔
 وَيَوْرٌ: چھوٹے چھوٹے ہال ٹکنا..... الثَّغْلُبُ:
 لومڑی کا نشان چھپانے کے لئے سخت زمین
 پر چلنا..... الرَّجُلُ بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا
 فَلَانٌ: بھاگنا اور وحشت زدہ ہونا یا تمہا
 زندگی بسر کرنا..... عَلَيْهِ الْأَمْرُ: پوشیدہ
 رکھنا۔
 وَيَوْرَتُ الثَّغْلَةُ: درخت خرما میں گام بھادینا۔
 الْوَيْبَرُ: سخت سردی کے سات دنوں میں سے
 ایک دن۔ مٹی سے چھوٹا ایک جانور جس کی
 ذم اور کان چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ ج
 وَوَيْبَرٌ وَبَارٌ وَوَيْبَرَةٌ: مَوْنُثُ الْوَيْبَرَةُ:
 السَّوْبَرُ: مص۔ اونٹ اور خرگوش وغیرہ کے
 بال ج اَوْبَارُ أَهْلُ الْوَيْبَرِ: دیہاتی لوگ۔
 کہا جاتا ہے "أَخَذَ الشَّيْءُ يَوْبَرَهُ" یعنی اس
 نے سارا لے لیا۔
 الْوَيْبَرَةُ: وَبَرٌ: کا واحد۔
 الْوَابِرُ: فا۔ کہا جاتا ہے "فَابَالِدَارٍ وَابِرٌ" گھر
 میں کوئی نہیں۔
 بَسَاتُ الْأَوْبَرُ وَبَسَاتُ أَوْبَرٌ: چھوٹی اور ردی
 قسم کے سانپ کی چھتری اور کہا جاتا ہے
 لَقِيْتُ مِنْهُ بَسَاتِ أَوْبَرٌ: مجھے اس سے صحبت
 حاصل ہوئی۔
 الْوَابُورُجُ بَوَابِيْرُ: اسیر۔ (فرائسی لفظ)

برکت کھانا۔ کہا جاتا ہے ”مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ وَتَحْتَهُ“ اس نے اس کو کچھ فائدہ نہیں دیا۔
وَتَخِ يَتَخُ وَتَحَا الرَّجُلُ بِالْقَصَا لِأَخِي مِنْهُ
مَارَتَا۔

أَوْتَحُّ إِسْخَا مِنْ فَلَانٍ: انتہائی مشقت کو پہنچانا۔

الْوَتْحَةُ: کچھ۔ کہا جاتا ہے ”مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ وَتَحْتَهُ“ اس نے اس کو کچھ فائدہ نہیں دیا۔
الْمِيخَةُ: چھری۔

وَتَدِيدُ وَتَدَاوِيدَةُ وَتَدَاوَيْدُ: میخ گز جانا۔
.....الْوَيْدُ: میخ گاڑنا۔ وَتَدْفِي بِيَسْبِهِ: اقامت کرنا۔ وَتَدُ الْمَرْزُوعُ: نباتات کا ظاہر ہونا اور قوی ہونا۔ اور کہا جاتا ہے ”وَتَدْرُجُ فِي الْأَرْضِ“ اس نے اپنے پیر کو زمین میں دھنسا دیا۔

أَوْتَدَايَا الْوَيْدِ: میخ گاڑنا۔
الْأَوْتَادُ فِي غَرْفِ الْمُسْلِمِينَ: مسلمانوں کی اصطلاح میں اوتاد چھپے ہوئے چار اولیاء ہیں اور ان کی ذمہ داری میں ہے کہ وہ چار آسمانوں سے آنے والے احکام کی تدبیر کریں۔ ان اولیاء کی رہائش چار آسمانوں پر ہوتی ہے۔ ان اولیاء کو العمد بھی کہا جاتا ہے۔

الْأَوْتَادُ الْأَرْبَعَةُ: (فلكیات)
چار ربیسی برج بارہ برجوں میں سے جن چار کے نام یہ ہیں: (۱) الْوَيْدُ السَّلْبِيُّ (۲) الْوَيْدُ الْغَنَابِيُّ (۳) وَتَدُ السَّمَاءِ (۴) وَتَدُ الْأَرْضِ: ان چار برجوں کو نظام فلكی میں بنیادی اور حفاظتی حیثیت ہے۔

الْوَيْدُ وَالْوَيْدُ وَالْوَيْدُ: میخ۔ کھوٹی۔ کان کے سامنے کامر کے مانند ابھرا ہوا حصہ۔
بِجْ أَوْتَادِ الْأَرْضِ: پہاڑ۔ اوتاد

الْبِلَادُ: ملک کے بڑے بڑے آدمی۔
أَوْتَادُ الْقَوْمِ: دانت وَالْوَيْدُ عِنْدَ أَهْلِ الْمَرْزُوعِ: تین حروف جن میں سے دوسرا یا تیسرا ساکن ہو۔ اگر دوسرا ساکن ہو تو ویتد مفروق کہلاتا ہے جیسے قَوْلٌ اور تیسرا ساکن

ہو تو ویتد مجموع جیسے علی۔
الْمَيْدُ وَالْمَيْدَةُ: میخ گاڑنے کی لکڑی یا لوہے کی موگری۔

الْوَيْدُ: فاء۔ ثابت۔ قَرْنٌ وَآيَةُ: کھڑا سینک ویتد ویتد: مبالغہ کے لئے ہے جیسے شَغْلٌ شَاغِلٌ۔

وَتَرْتِيْرٌ وَتَرَا وَتِرَةٌ فَلَانًا: گھبرادینا۔ ستانا۔ تکلیف پہنچانا..... فَلَانًا مَالَةً أَوْ حَقَّةً: گھنا دینا۔ الْقَوْمُ: جنت کو طاق کر دینا..... الْقَوْمُ: تانت لگانا۔

أَوْتَرَايَا الْقَوْمِ: کمان کے لئے تانت بنانا یا کمان میں تانت لگانا..... الشئُ: طاق بنانا..... يَبِينُ الْأَشْيَاءَ: وقفہ دے دے کر لگا کر لگانا۔

وَأَتَرَ وَتَارًا وَمُؤَاتِرَةُ الْأَشْيَاءِ: وقفہ دے دے کر لگانا کرنا..... الْكُتْبُ: لگا کر لگانا۔
وَأَتَرَ وَتَارًا وَمُؤَاتِرَةُ الْأَشْيَاءِ: وقفہ دے دے کر لگانا کرنا..... الْكُتْبُ: لگا کر لگانا۔

وَتَر الْقَوْمِ: کمان میں تانت لگانا۔
تَوَاتَرَ الْعَصَبُ وَنَحْوُهُ: بچھے وغیرہ کا تانت کی مانند سخت ہونا۔
تَوَاتَرَتِ الْأَشْيَاءُ: وقفہ کے ساتھ لگا کر ہونا۔

وَتَر الْقَوْمِ: کمان کی تانت۔
فِي الْخَيْطِ الْمُنْحَنِي: خطا کا قطعہ جو لفظوں کو ملانے والا ہو۔ فِي الْمُنْتَلِثِ الْقَائِمِ: الزاویۃ: (علم بیت) زاویہ قائمہ کے بالقابل ضلع۔

الْوَتْرُ وَالْوَتْرُ: بے جوڑ۔ طاق۔ بدلہ یا بدلہ لینے میں ظلم۔ جِ أَوْتَارِ: الْوَتْرُ: وَتْرَةٌ: کی جمع ہے بمعنی تانت۔ جِ أَوْتَارٌ وَتَارٌ۔

الْوَتْرَةُ: دو انگلیوں کے درمیان کی کھال۔ کان کے اوپر کے حصہ کی نرم بڑی۔ نتھنے کا کنارہ یا ناک کے پانہ اور مونچھ کے درمیان کا حصہ۔ کمان سے تیر نکلنے کی جگہ۔ زبان کے نیچے کا پٹھا۔ مکان کا وہ حصہ جہاں

ستونوں سے طاق کے مانند بنایا جائے۔ ہر چیز کا گھیرا۔ ہر چیز کا خالص حصہ جِ وَتْرٌ وَتَرَاتٌ۔

الْوَيْسْرَةُ: طریقہ۔ وقفہ۔ سستی۔ نیزہ بازی سیکھنے کا دائرہ۔ قبر۔ گھوڑے کی پیشانی کا گول سفید داغ۔ بدلہ یا بدلہ دینے میں ظلم۔

القيد - تاخیر۔ نتھنوں کے درمیان کا پردہ۔ کان کے اوپر کا حصہ کی نرم بڑی۔ دو انگلیوں کے درمیان کی کھال۔ ہونٹ کا حلقہ۔ مکان کا وہ حصہ جہاں ستونوں سے طاق کے مانند بنایا جائے۔ سفید زمین۔ گلاب کا شگوفہ۔ پہلی دہائی کا نام۔ یعنی جب دس کا عدد پورا ہو جاتا ہے تو اسے ویتیرہ کہتے ہیں۔

تقری: اس کی اصل و تقری ہے اور اس کے معنی ایک کے بعد ایک کا آنا جیسے أَرْسَلْنَا وَرَسَلْنَا تقری۔

السُّنُورُ: مطع۔ وہ شخص جو اپنے مقتول کے خون کا بدلہ نہ لے سکے۔
الْوَيْشُ: ہر چیز کا قلیل۔ کہنے۔

وَبِخٌ وَيَوْنٌ وَتَغَا: گنگنا ہونا۔ دین یا دنیا کے بارے میں ہلاک ہونا۔ درد مند ہونا۔ بدخلق ہونا۔ ملامت زدہ ہونا۔ گفتگو میں ناسمجھ ہونا۔ برا قول کہنا اور حد درجہ جاہل ہونا.....

فِي حُجْبَةٍ: غلطی کرنا۔
أَوْتَعَهُ إِنْتَاعًا: ہلاک کرنا۔ قید کرنا اور بقول بعض مصیبت میں ڈالنا۔ دردناک کرنا۔
أَوْتَعَهُ عِنْدَ السُّلْطَانِ: محضرات کی تلقین کرنا۔ کہا جاتا ہے ”أَوْتَعَهُ بِأَلَانِهِمْ“ اس نے اپنے دین کو گناہ سے خراب کیا۔
الْوَيْغَةُ: دلیل میں غلطی۔

الْمَوْتَعَةُ: ہلاکت۔
وَتَمَّ يَبِينُ وَتَوْنَا وَتَمَّةُ الْمَاءِ: پانی کا ہمیشہ رہنا اور ختم نہ ہونا..... بِالْمَكَّانِ: گھبرانا اور اقامت کرنا..... وَتَسَاوُ وَتِسَامٌ: الرَّجُلُ: شرگ پر مارنا۔

وَتَمَّ: شرگ پر مارنا۔
وَأَتَسَهُ مَوَاتِنَةً: چٹنا۔ ایک دوسرے کا مانند

یا زیتون کے تیل میں لت پت کر کے تیار کیا ہوا کھانا۔

وَجِبْ يَجِبُ وَجُوبًا وَجِبَةُ الشَّيْءِ: ثابت ہونا۔ لازم ہونا۔ کہا جاتا ہے "وَجِبَ الْبَيْعُ" اور "وَجِبَ لِي عَلَى فُلَانٍ كَذَا" یعنی بیع لازم ہوگئی اور میری فلاں پر اتنی چیز ثابت ہوگئی

(.....) وَجِبَةُ الْحَالِطِ وَنَحْوَهُ: دپوار کا زمین پر گرنا..... الرَّجُلُ: دن میں ایک دفعہ کھانا..... وَجِبْنَا وَجُوبْنَا: الرَّجُلُ: مرتے ہوئے گرنا۔ کہا جاتا ہے "حَسْرَتُهُ فَوَجِبَ" اس نے اسے مارا ہے وہ مر کر گر گیا

فَلَا تَأْكُلْهُ: باز رکھنا۔ بنا دینا۔ وَجِبْتُ الشَّمْسُ: آفتاب کا غروب ہونا..... الْعَيْنُ: آکھ کا دھنس جانا۔ وَجِبْتُ وَجِبًا وَجِبْنَا وَجِبْنَا الْقَلْبُ: دل کا ترپنا۔ دھڑکنا۔

وَجِبْتُ يُوَجِبُ وَجُوبَةٌ: بزدل ہونا۔ وَجِبْتُ: دن میں ایک ہی مرتبہ کھانا۔

وَجِبْتُ يُوَجِبُ وَجُوبَةٌ: بزدل ہونا۔ وَجِبْتُ: دن میں ایک ہی مرتبہ کھانے کا عادی بنانا اور ایسا ہی وَجِبْتُ نَفْسَهُ وَنَفْسِيہ: اپنے کو ایک ہی مرتبہ کھانے کا عادی کرنا..... النَّاقَةُ: اونٹنی کو دن رات میں صرف ایک مرتبہ دھنا

..... الْأَمْرُ عَلَيْهِ: لازم کرنا..... بِهِ الْأَرْضُ: زمین پر ٹیک دینا۔ وَجِبْتُ الْإِبِلَ: اونٹ کا تھلنا..... وَجِبْتُ الْبَيْتَ فِي ضَرْعِ النَّاقَةِ: بیوی کا تھن میں جم جانا۔ الْبَيْعُ: اونٹ کا بیخنا۔

أَوْجِبْتُ: رعایت کرنا۔

أَوْجِبْتُ: رعایت کرنا۔

أَوْجِبْتُ: رعایت کرنا۔

أَوْجِبْتُ: رعایت کرنا۔

أَوْجِبْتُ: رعایت کرنا۔

أَوْجِبْتُ: رعایت کرنا۔

أَوْجِبْتُ: رعایت کرنا۔

أَوْجِبْتُ: رعایت کرنا۔

أَوْجِبْتُ: رعایت کرنا۔

أَوْجِبْتُ: رعایت کرنا۔

أَوْجِبْتُ: رعایت کرنا۔

السُّؤِيمَةُ: پتھر۔ چمقاق کا پتھر۔ گھاس یا نباتات کا: حیر۔

الْوَيْثَمُ: کمی۔ خَفَّ مَيْثَمٌ: بہت پامال کرنے والا گھر۔ وَثْنٌ يَنْحُ وَثُونًا: عہد پر قائم رہنا۔

أَوْثَنَةُ الْبَنَاتَانَا: بہت عطیہ دینا..... مِنْ الْمَالِ: بہت لینا۔

إِسْتَوْثَنَ اسْتِثْنَانًا الشَّيْءُ: باقی رہنا۔ مضبوط ہونا..... الْمَالُ: مال یعنی مویشی کا موٹا ہونا..... مِنْ الْمَالِ: بہت لینا۔

إِسْتَوْثَنَتِ الْإِبِلُ: اولاد کا بڑھنا۔ السَّوَالِينُ: فَا: ایک جگہ پر قائم رہنے والا۔ ج وَثْنٌ.

الْوَيْثَمُ: بت۔ ج أَوْثَانٌ وَوَيْثَنٌ وَوَيْثَنٌ وَوَيْثَنٌ: الوَيْثَمُ: بت پرست۔

وَوَيْثَمٌ تَوَيْثَمٌ وَوَيْثَمٌ تَوَيْثَمٌ: ہاتھ میں موج ہونا۔ صفت مؤنثہ.

أَوْثَى إِثْيَاءَ الرَّجُلِ: زخمی یا شکستہ سواری والا ہونا۔

الْوَيْثَمُ: موج۔

الْوَيْثَمُ: تکیہیں۔

الْمَيْثَاءُ: موگری۔ ہتھوڑا۔

وَجَّ يُوَجُّ وَجًا: تیز چلنا۔ دوڑنا۔

الْوَجُّ: مہم۔ تیزی۔ شتر مرغ۔ قظا۔ بل کی ککڑی۔ ایک دو کا نام۔

وَجَّ يُوَجُّ وَجًا وَوَجَّ فُلَانًا بِالسَّيْحَيْنِ: کسی کی چھری یا ہاتھ سے مارنا۔ صفت مفعولی مؤنثہ ووجی اور اسم الوجاء..... التَّمَرُ: کھجور کو کہنا۔

وَجَّ يُوَجُّ وَجًا وَوَجَّ فُلَانًا بِالسَّيْحَيْنِ: کسی کی چھری یا ہاتھ سے مارنا۔ صفت مفعولی مؤنثہ ووجی اور اسم الوجاء..... التَّمَرُ: کھجور کو کہنا۔

وَجَّ يُوَجُّ وَجًا وَوَجَّ فُلَانًا بِالسَّيْحَيْنِ: کسی کی چھری یا ہاتھ سے مارنا۔ صفت مفعولی مؤنثہ ووجی اور اسم الوجاء..... التَّمَرُ: کھجور کو کہنا۔

وَجَّ يُوَجُّ وَجًا وَوَجَّ فُلَانًا بِالسَّيْحَيْنِ: کسی کی چھری یا ہاتھ سے مارنا۔ صفت مفعولی مؤنثہ ووجی اور اسم الوجاء..... التَّمَرُ: کھجور کو کہنا۔

وَجَّ يُوَجُّ وَجًا وَوَجَّ فُلَانًا بِالسَّيْحَيْنِ: کسی کی چھری یا ہاتھ سے مارنا۔ صفت مفعولی مؤنثہ ووجی اور اسم الوجاء..... التَّمَرُ: کھجور کو کہنا۔

سے "فُلَانٌ أَخُو ثَقِيفٍ" یعنی فلاں بہادر ہے اور اس کی بہادری پر مجھ سے کیا جاتا ہے۔

الْوَيْثَامُ وَالْوَيْثَامُ: باندھنے کی چیز جیسے رسی وغیرہ ج وَوَيْثَمٌ. الوَيْثَمُ: مضبوط۔ ج وَوَيْثَامٌ.

الْوَيْثَامَةُ: وثیق: کا موٹے۔ قابل اعتماد۔ کام کی مضبوطی۔ أَرْضٌ وَوَيْثَامَةٌ: بہت گھاس والی زمین ج وَوَيْثَامٌ.

الْأَوْثَقُ: اسم تفضیل۔ موٹے وثقی اور اسی سے ہے "اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى" اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا اور کہا جاتا ہے "خُذِ الْأَمْرَ بِالْأَوْثَقِ" معاملہ کو مضبوطی کے ساتھ اختیار کرو۔

الْمَوْثِقُ وَالْمَيْثَاقُ: عہد۔ ج مَوَاقِقٌ وَمَيْثَاقٌ وَمَوَاقِيقٌ وَمَيْثَاقٌ.

الْوَيْثَامَةُ: زیتون کی قسم کا ایک چھوٹا درخت جس کے جے آنے سے ہوتے ہیں پھول خوش کی شکل میں لگتے ہوتے ہیں

زینت کے لئے بویا جاتا ہے۔

وَقِيلَ الْمَالُ: مال جمع کرنا..... الشَّيْءُ: مضبوط واستوار کرنا۔

الْوَيْثَلُ: درخت خرما کے چھال کی رسی۔

چڑے کا میل پکیل۔

الْوَيْثَلُ: درخت خرما کی چھال۔ درخت خرما کی چھال کی رسی یا جوت کی رسی۔

وَتَمَّ يَتَمُّ وَتَمًّا الشَّيْءُ: توڑنا۔ کوٹنا۔ وَتَمَّ الْمَطَرُ الْأَرْضَ: زور سے بارش ہونا..... الْفَرَسُ الْأَرْضَ: کھوڑے کا زمین پر پاؤں مارنا۔

وَتَمَّتْ وَتَمًّا وَتَمًّا الْجَبَارَةُ رَجُلًا: پتھروں کا پیر کو خون آلود کر دینا۔

وَتَمَّ يَتَمُّ وَتَمًّا الْمَكَانَ: کم گھاس والی ہونا۔

وَتَمَّ يَتَمُّ وَتَمًّا: بہت گوشت والا اور گھٹا ہونا۔ صفت مؤنثہ.

وَاتَمَّ مَوَالِمًا فِي الْعَدُوِّ: دشمنوں میں گھستے ہوئے چلا جانا۔

إِسْتَوْجَبَ إِسْتِجَابًا الشَّيْءُ: سَخِطَ هَوَانًا -
واجب و لازم جانا۔
الْوَجُوبُ: مِمَّنْ بَرِيءٌ مِمَّنْكَ - رَجُوعٌ
وَجَابٌ (.....) وَالْوَجَابُ وَالْوَجَابَةُ:
بَرْدٌ - قَلْبٌ وَجَابٌ: بَهْتٌ دَهْرٌ كُنْهُ وَاللَّامُ
دَلٌّ -
الْوَجِبُ: كَهْوُزٌ دَوْرٌ يَأْتِي رَازِيًا كِي شَرْطٌ -
السُّوَجِبَةُ: مِمَّنْ دَهْمَا كِي سَا تَهْ كَرْنَا - يَأْتِي
كِرْنِي كِي آوَا ز - دِن مِيں اِيك مَرْتَبَه
كِي خَوْرَاك - رَجُوعٌ وَجِبَاتٌ.
الْوَجُوبُ: مِمَّنْ شَبُوتٌ - ذَاتَا كَا اِي نِي مِيں كَا
اِقْتِضَاءُ كَرْنَا اَوْرَا خَارِج مِيں مَحْقُقٌ هُوْنَا -
الْوَجِيئَةُ: وَطِيْفَةٌ - رَجُوعٌ كُو اِجْبَا كَرْنَا - پَهْر پَهْلِي
پَهْل لِيْنَا اَوْر جِب لِي كَر فَا رِغ هُو چُكُو تُو كِهَا
جَا تَا هِي "فَقَدْ اسْتَوْفَيْتَ وَجِيئَتَكَ".
السُّوَا جِب: فَا - لَازِم اَوْر جَا زِم كَمَنْ مَمْتَنُ كِي
مَقَابِل پَر هِي بُولَا جَا تَا هِي - السُّوَا جِب:
مَمْتَنُ وَا جِبُ الْمَوْجُودِ: جِس كَا دِجُورُ بَدَا تِه
هُوَ اَوْر هِي كِي كَا مَمْتَنُ نَه هُو اَوْر اِي مِش هِي سِي هُو
اَوْر اِي مِش رِهِي -
الْمَوْجِبُ: فَا - سَبَبٌ - بَاعِثٌ -
الْمَوْجِبُ: مَمْتَنٌ مِيں الْكَلَامُ: جِس مِيں نَفِي
نَهِي اسْتِفْهَام هُو -
السُّوَجِبَةُ: بَرِيءٌ يَكْنِي يَأْتِي اَرَا كِنَا هُو بَاعِثٌ
جَنَّتْ يَا جَنَّم هُو -
السُّوَجِبُ: مَمْتَنٌ - رَجُوعٌ مَوْجِبُ كِهَا جَا تَا
هِي "خَرَجَ الْقَوْمُ اِلَى مَوَا جِبِهِمْ" تُو م اِي نِي
مَمْتَنُ كِي جُكُوه مِيں كِي -
وَجَحُّ الشَّيْءِ: ظَاهِرٌ هُوْنَا -
اَوْجَحُّ: ظَاهِرٌ هُوْنَا الْخَافِرُ: كَهْوُ دِنِي مِيں
چِشَان تَك پَهِنْجَا الْبَيْتُ: كَهْر پَر دِه لَنَكَا تَا
..... هِي اِلَى كِنَا: مَجْبُورٌ كَرْنَا - اَوْجَحَّتِ النَّارُ:
آگ كَا چِكْنَا عَثْرَةُ الْفَرَسِ: كَهْوُ دِي كِي
پيشاني كِي سفيدى كَا وَا خُوحٌ هُوْنَا - اَوْجَحُّ
الْبُؤُورُ فَلَانَا: پيشاب كَا كِي كُو تَكْلِيْفُ
پَهِنْجَا تَا -
الْوَجَا ح: چِكْنَا پَهْر (.....) السُّوَجَا ح

وَالْوَجَا ح (.....) پَر دِه -
الْوَجَا ح: غَارُ كِي مَانَد -
السُّوَجَا ح: مَمْتَنٌ - جَا ئِي پَهَا - چِكْنَا چِرَا (.....)
وَالْوَجَا ح (.....) مَضْبُوطٌ وَكَلْفٌ بِنَا هُو اَكْبَرَا -
السُّوَجَا ح مِمَّنْ الْاَسْوَابُ: بِنَد كِيَا هُوَا
دِر وَا زِه -
وَجَدٌ وَوَجَدٌ يَجِدُ وَجَدًا وَوَجْدًا وَجَدَةً
وَوَجُودًا وَوَجْدَانًا وَاجْدَانًا الْمَطْلُوبُ:
پَا نَا - ضَا ئِحُ هُونِي كِي بَعْد كَا مِيَا ب هُوْنَا - كِهَا
جَا تَا هِي "وَجَدْتُ الضَّالَّةَ" مِيں نِي گَم شَدِه
كُو پَا لِيَا وَوَجَدَ اِنْعَالُ الْقَلُوبِ مِيں سِي هِي
هِي اِس صَوْرَت مِيں دُو مَفْعُولُ كُو نَصْب دِيْنَا
هِي جِي سِي وَوَجَدْتُ كَلَامَكَ ضَا دِقًا اَوْر اِس
كَا مَصْدَرُ وُجُودٌ هِي -
وَجَدٌ يَجِدُ وَوَجْدًا وَوَجْدًا وَوَجْدًا.
وَجَدَةُ الْمَالِ وَنَحْوُهُ: سَمْتِي هُوْنَا -
وَجَدٌ يَجِدُ وَيَجِدُ وَوَجْدًا وَوَجْدَةً وَمَوْجِدَةٌ
وَوَجْدَانًا عَلَيْهِ: غَضَبْنَا ك هُوْنَا (.....) وَوَجْدًا
بِفَلَانٍ: بَهْتٌ مَحَبَّت كَرْنَا لَه: مَمْتَنٌ هُوْنَا -
وَجَدٌ يَوْجِدُ وَوَجْدًا: بَهْتٌ مَحَبَّت كَرْنَا لَه:
مَمْتَنٌ هُوْنَا -
وَجَدٌ وَوَجْدًا الشَّيْءُ عَن عَدَمٍ: نِي سَت سِي
بَهْت هُوْنَا - مَمْتَنٌ مَوْجُودٌ.
اَوْجَدَ اِسْتِجَا دَا اللّٰهُ الشَّيْءُ: مَوْجُودٌ كَرْنَا
فَلَانَا: نَفِي كَرْنَا - قَوِي كَرْنَا هُو مَطْلُوبُهُ:
كَا مِيَا ب كَرْنَا - فَتْحٌ مَمْدٌ كَرْنَا - حَاصِلٌ كَرْنَا -
اَوْجَدُهُ عَلَيَّ الْاَمْرُ: مَجْبُورٌ كَرْنَا - اَوْجَدُهُ
اِلَيْهِ: مَهْظَرٌ كَرْنَا -
تَوْجِدِيْهِ: مَحَبَّت كَرْنَا لَه: مَمْتَنٌ هُوْنَا
السَّهْرُ وَنَحْوُهُ: بِي خَوَابِي وَغِيْرَه كِي شَكَا يَت
كَرْنَا -
تَوْاجِدُ: مَحَبَّت يَا خُوشِي يَا ثَمُّ يَا تَكْلِيْفُ ظَاهِرٌ كَرْنَا -
السُّوَجِدُ: مِمَّنْ پَانِي جَمْعُ هُونِي كِي جَلْدُ رَجُوعٌ
وَجَاوُزٌ (.....) وَالْوَجْدُ وَالْوَجْدُ: مَحَبَّت -
خُوشِي - تُو اَنگَرِي - قَدْرَت - كِهَا جَا تَا هِي "هَذَا
مِيں وَجْدِي" - يِي مِيْرِي قَدْرَت مِيں هِي -
الْحِجْدَةُ: مِمَّنْ تُو اَنگَرِي - قَدْرَت -

الْوَجْدَانُ: مِمَّنْ اَوْر بَعْضُوں كِي نَزْدِيك بَعْضِي
نَفْسِ اَوْر اِس كِي پَانِي تُو تِيں -
الْوَجْدَانِي: بَرْدَه چِيْزُ جِس كُو اِنْسَان اِي نِي نَفْسِ
سِي مَحْسُوسُ كَرِي - جُو چِيْزِيں پَانِي تُو تُوں
سِي مَحْسُوسُ هُوں - رَجُوعٌ وَوَجْدَانِيَاتٌ.
السُّوَا جِدُ: فَا - تُو اَنگَر - مَحَبَّت اَوْر كِهَا جَا تَا هِي اَنَا
وَاجِدُ لِلشَّيْءِ: مِيں اِس پَر كَا دِر هُوں -
السُّوَا جِدُ: بَهْتٌ غَضَبْنَا ك -
السُّوَا جِدُ: هُو اَر ز مِيں - رَجُوعٌ وَوَجْدَانٌ.
السُّوَا جِدُ: مِمَّنْ بَهْت - عَدَمٌ كَا خِلَافٌ -
السُّوَا جِدُ: عَدَمٌ كَا خِلَافٌ -
اَوْجَدُهُ اِلَى كِنَا: مَهْظَرٌ كَرْنَا عَلَيْهِ: مَجْبُورٌ
كَرْنَا -
السُّوَا جِدُ: پَهَا ز كَا گُرُ هَا جِس مِيں پَانِي جَمْعُ هُو
جَا ئِي اَوْر بَقُولُ بَعْضُ حَوْضِ رَجُوعٌ وَوَجْدَانٌ
وَوَجْدَانٌ.
فَكَانَ وَجْدٌ: بَهْتٌ گُرُوهُوں وَا لِي - يَا بَهْت
حَوْضِ وَا لِي جَلْد -
وَجَرٌ يَوْجِرُ وَوَجْرًا مِيں كِنَا: خَوْفٌ كَرْنَا -
مَمْتَنٌ كَرْنَا وَوَجْرٌ وَوَجْرًا
وَجْرَةٌ وَوَجْرَاءٌ.
وَجْرَةٌ يَجْرُ وَوَجْرًا: مَمْتَنٌ مِيں دَوَا اِلَى النَّارِ
وَوَجْرٌ فَلَانَا: نَا پَسِنْدِي دِه پَانِي سَنَا تَا -
اَوْجِرُهُ اِسْتِجَا رَا: الْوَجُورُ: مَمْتَنٌ مِيں دَوَا اِلَى النَّارِ
..... هُو الْمَوْجِبُ: مَمْتَنٌ مِيں نِيْزِه مَارَا تَا -
تَوْجِرُ الْمَاءَ: نَا پَسِنْدِي دِي سِي پِيْنَا
الدُّوَاءُ: دَوَا كُو تَهْوِرَا تَهْوِرَا اَثَقْنَا -
اِتَّجَرَ وَوَجُورٌ: سِي عِلَاجُ كَرْنَا (اِس كِي اَصْلُ
اَوْ تَجَرُ هِي) دِي كِهِي وَوَجُورٌ.
السُّوَا جِرُ: مِمَّنْ - پَهَا ز مِيں غَارُ كِي مَانَد رَجُوعٌ
اَوْجَارٌ.
السُّوَا جِرَةُ وَالْوَجْرَةُ: حُوشِي جَانُوْرُوں كُو شَكَا ر
كَرْنِي كَا گُرُ هَا - رَجُوعٌ اَوْجَارٌ.
السُّوَا جَارُ وَالْوَجَارُ: بَجُو وَغِيْرَه كَا بَهْت - وَا دِي
كَا وِه حَصْدُ جِس كُو سِيْلَابُ نِي كَهْوُ دِيَا هُو - رَجُوعٌ
اَوْجِرَةٌ وَوَجْرٌ.
السُّوَا جِرُ وَالْوَجُورُ: مَمْتَنٌ چِكَا نِي كِي دَوَا -

المَيْجِزُ وَالْمَيْجِرَةُ: منہ میں دو اچکانے کا آلہ۔

المَيْجِخَارُ: چوگان کے مانند ایک لکڑی جس سے گیند کو مارتے ہیں۔

وَجَزْ يَجُزُ وَجَزَا الْكَلَامُ: کلام مختصر کرنا۔

(وَجَزْ يُوْجِزُ وَجَزَاوُ وَجَزَاةٌ وَوَجُوزًا)

الرَّجُلُ فِي مَنْطِقِهِ: مختصر گو ہونا۔

وَجَزْ يُوْجِزُ وَجَزَاةُ الْكَلَامِ: کلام مختصر و بلیغ ہونا۔

أَوْجَزَ إِيجَازًا الْكَلَامُ: مختصر ہونا..... الْكَلَامُ

وَفِي الْكَلَامِ: مختصر کرنا..... الْعَقِيَّةُ: جلدی دینا۔

تَوَجَّزَ الشَّيْءُ: حاجت پوری کرنے کو کہنا۔

اسْتَوْجَزَ اسْتِيجَازًا الْكَلَامُ: زوائد کو حذف کر دینا۔

الْوَجِزُ: رَجُلٌ وَجِزٌ: جلدی دینے والا یا

پھرتار..... وَالْوَجِيزُ وَالْوَجِيزُ: ہلکا اور

مختصر..... مِنَ الْكَلَامِ: جلدی سے سمجھ میں

آنے والا مختصر کلام۔

المَيْجِجَارُ: مختصر کلام۔ بولنے کا عادی۔

وَجَسَّ يَجْسُ وَجَسًا: پوشیدہ ہونا۔

وَجَسَّتِ الْأُذُنُ: کان کا آہٹ محسوس کرنا

(..... وَجَسًا وَجَسَانًا) سنی ہوئی چیز سے

گھبرانا۔

أَوْجَسَ إِيجَاسًا الرَّجُلُ: محسوس کرنا اور دل

میں چمپانا۔ کہا جاتا ہے "أَوْجَسَ الْقَلْبُ

فَزَعًا" یعنی دل نے گھبراہٹ محسوس کی۔

أَوْجَسَتِ الْأُذُنُ: کان کا آہٹ سننا۔

تَوَجَّسَ: آہٹ پر کان لگانا..... الطَّغَامُ او

الشَّرَابُ: تھوڑا تھوڑا چکھنا..... فَزَعًا:

گھبراہٹ محسوس کرنا..... الصُّوْتُ: خوفزدہ

ہو کر سننا..... فَوَجَّسَتِ الْأُذُنُ: آواز سننا۔

السُّوْجَسُ: مص۔ آہستہ آواز۔ دل کی

گھبراہٹ۔

الْوَجَسُ: فَا۔ دل میں آنے والا خیال۔

الْوَجَسُ: تھوڑی تھوڑی خورد و نوش۔ زمانہ۔ کہا

جاتا ہے "لَا أَفْعَلُهُ مَسْجِسٌ الْوَجَسُ"

میں اس کو بھی نہیں کروں گا۔

وَجِعَ يُوْجِعُ وَجَعًا: مریض اور درد مند

ہونا۔ اس کے مضارع میں يَجِيعُ اور يَسْجَعُ

واو کو ی یا الف سے بدل کر بھی بولتے ہیں

وَوَجِعَ فَلَانًا رَأْسَهُ وَوَجِعَ فَلَانٌ رَأْسَهُ

فَلَانٌ کے سر میں درد ہے۔

أَوْجَعَهُ إِيجَاعًا: درد مند کرنا۔ تکلیف پہنچانا

أَوْجَعَ فِى الْعَدُوِّ: دشمن کی بہت خونریزی

کرنا۔

تَوَجَّعَ: شکایت کرنا۔ غم ظاہر کرنا..... لَمْ: نرم

بول ہونا۔

السُّوْجِعُ: مرض و تکلیف ج و جَسَاعٌ و

أَوْجَاعٌ.

السُّوْجِعُ: درد والا۔ ج و جَعُونَ و وَجَعِي

وَوَجَاعِي و وَجَاعٌ و أَوْجَاعٌ مَوْنِثٌ وَجَعَةٌ

ج و وَجَاعِي و وَجَعَاتٌ.

الْجَعَّةُ: جو کی نبیذ۔

الْأَوْجِعُ: بہت تکلیف پہنچانے والا۔ (یہ اسم

تفضیل کا صیغہ ہے اور شاذ ہے اس لئے کہ

أَوْجِعَ ثَلَاثِي مَرَّةٍ سے بنایا گیا ہے)

الْوَجَعَاءُ: در۔ ج و جَعَاوَاتٌ.

السُّوْجِيعُ: درد پہنچانے والا۔ کہا جاتا ہے

"ضَرْبٌ وَجِيعٌ" درد ناک مار۔ جیسے کہا جاتا

ہے "عَذَابٌ لَيْمٌ".

وَجَفَّ يَجِفُّ وَجَفًّا وَوَجِيفًا وَوَجُوفًا

الشَّيْءُ: مضطرب ہونا)..... وَجِيفًا)

الْقَلْبُ: دل کا دھڑکنا۔ صفت وَجَافٌ

وَوَاجِفٌ (..... وَوَجِيفًا) الْقَرَسُ:

گھوڑے کا تیز دوڑنا۔ صفت وَاجِفٌ.

أَوْجَفَ الْقَرَسُ: گھوڑے کو تیز دوڑانا۔

الشَّيْءُ: حرکت دینا۔ مضطرب کرنا.....

البَابُ: دروازہ بند کرنا۔

اسْتَوْجَفَ الْحُبُّ فَوَاذَةً: محبت کا دل کو

شیفتہ کرنا۔

نَاقَةٌ مَيْجَافٌ: تیز دوڑنے والی اونٹنی۔

الْوَجِيفُ: مص۔ خوف سے گرنا۔

السُّوْجَاقُ وَالْأَوْجَاقُ: آتش دان۔

انگلیٹھی۔ فوج کی ترتیب۔ ج

وَجَافَاتٌ (ذخیل)

وَجَلَّ يُوْجِلُّ وَجَلًّا وَوَجَلًّا: ڈرنا یا خوف

محسوس کرنا اور اس کا مضارع يَسْجِلُّ اور

يَسْجَلُّ وَاوُكُوْا يَأِي الْفَ سے بدل کر اور

يَسْجَلُّ علامت مضارع کے کسرہ کے ساتھ

بھی بولا جاتا ہے۔

وَجَلَّهُ يُوْجِلُّهُ وَجَلًّا: خوف میں بڑھ جانا۔

وَجَلَّ يُوْجِلُّ وَجَالَةً: بوڑھا ہونا۔

وَأَجَلَّهُ مَوَاجِلَةً فَوَجَلَّهُ: خوف میں مقابلہ

کرنا۔

أَوْجَلَّهُ: ڈرانا۔

الْوَجَلُّ: خوف۔ ج أَوْجَالٌ.

السُّوْجِلُّ: خوف کرنے والا۔ ج و جَلُّونٌ

وَجَالٌ مَوْنِثٌ وَجَلَّةٌ.

الْأَوْجَلُّ: خوف کرنے والا (مؤنث کے

لئے وَجَلَاءٌ نہیں بلکہ وَجَلَّةٌ بولا جاتا ہے)

اور کہا جاتا ہے "هُوَ أَوْجَلُّ مِنْكَ" وہ تم

سے زیادہ خائف ہے۔

الْوَجِيلُ وَالْمَوْجِلُّ: گڑھا جس میں پانی جمع

ہو۔ الْمَوْجِلُّ: خوف کی جگہ۔

الْوَجُولُ: بڈھے۔

وَجَمَهُ يَجْمُهُ وَجْمًا: مکا مارنا)..... وَجْمًا

وَجُومًا) شت غیظ یا خوف سے گفتگو سے

عاجز رہنا۔ کہا جاتا ہے "لَمْ أَجْمِ عَنْهُ" میں

اس سے گھبرا کر خاموش نہیں ہوا۔ شدت تم

کی وجہ سے ترش رو ہو کر سر جھکانا۔ صفت

وَجَمٌ وَوَجْمٌ. وَجَمٌ مِنَ الْأَمْرِ: ناپسند کر

کے رک جانا..... الشَّيْءُ: ناپسند کرنا۔ وَجَمٌ

لِفُلَانٍ مِنْ كَذَا: نرم دل اور غمگین ہونا۔

الْوَجْمُ: مص۔ رَجُلٌ وَجْمٌ: ناکارہ مرد۔ کہا

جاتا ہے "هُوَ وَجْمٌ سُوءٌ" وہ برا آدمی

ہے۔

الْوَجْمُ: بخیل۔ لَيمٌ۔ ہلکا پھلکا۔

الْوَجْمُ وَالْوَجْمُ: قبروں یا ٹیلوں پر پتھروں کا

ڈھیر یا جنگلوں میں راستہ کے نشانات ج

وَجُومٌ وَأَوْجَامٌ. بَيْتٌ وَجْمٌ وَوَجْمٌ: بڑا

کھر۔

الأَوْجُم: اسم تفصیل۔ أَوْجُم الرَّمَل: ریت کا بڑا قطعہ۔

الْوَجْمَةُ: ایک مرتبہ کی خوراک۔

الْوَجْمَةُ: ننگ و عار۔

الْوَجِيمُ مِنَ الْأَيَّامِ: سخت گرم دن۔

الْوَجِيمَةُ: گیبوں یا چارہ۔ آفت رسیدہ۔

المِبْجَمَةُ: دھوبی کی موگری۔

وَجِنٌ يَجْنُ وَجِنًا بِالشَّمْسِ: پھینکنا..... الوُتْدُ:

کھوئی شہوتنا..... بِه الْأَرْضِ: زمین پر پھینکنا

..... الْقَفْصَارُ الشُّوبُ: دھوبی کا کپڑے کو

پچھوڑنا۔

وَجَنُّ الْجِلْدِ: کھال کو نرم ہونے کے لئے کوٹنا۔

تَوَجَّنَ: ذلیل ہونا۔ فروتنی کرنا۔

الْوَجْنَةُ وَالْوَجْنَةُ وَالْوَجْنَةُ وَالْوَجْنَةُ

وَالْوَجْنَةُ وَالْوَجْنَةُ وَالْوَجْنَةُ:

رخسارہ میں اُبھری ہوئی جگہ ج و جَنَاتِ:

الْوَجْنِ وَالْوَجْنِ وَالْوَجْنِ: پتھر ٹیلی سخت

زمین۔

الْوَجْنِ: وادی کا کنارہ۔ سامنے کی قدرے

اوپنی اور پتھر ٹیلی زمین ج و جَنِّ:

الأَوْجَسِ: سخت پہاڑ۔ بڑے رخساروں

والا۔ مَوْنَشُ وَجْنَاءُ نَاقَةَ وَجْنَاءُ: سخت

اونٹنی۔

السُّوَجِنِ: بڑے رخساروں والا۔ بہت

گوشت والا موٹا۔

المِبْجَمَةُ: موگری۔ ج مَبَايِنٌ وَمَوَايِنٌ:

المَوَّجُونُ: مٹع۔ شرمندہ۔

المَوَّجُونَةُ: دلہن کا آراستہ کرہ۔

وَجْنَةٌ سَجْنَةٌ وَجْنَةٌ فَلَانًا: منہ پر مارنا اور درد

کرنا۔ لوگوں کے نزدیک وجاہت میں بڑھ

جانا۔

وَجْنَةٌ يُوَجِّنُ وَجَاهَةً: وجیہ ہونا۔ صاحب

وجاہت ہونا۔

وَجْنَةٌ إِلَى فَلَانٍ: کسی کے پاس جانا..... هُ إِلَى

فَلَانٍ: کسی کے پاس بھیجنا..... هُ الْأَمِيرُ:

بَاعَزَتْ بَنَا..... وَجْنَةُ الشَّمْسِ: کسی طرف

پھیر دینا۔ الْقَوْمُ الطَّرِيقُ: راستہ پر چلنا اور

نشان واضح کرنا۔ لِبَعِيدِهِ: غلام سے اپنے

مرنے کے بعد آزادی کے لئے کہنا.....

الْمَطَرُ الْأَرْضُ: ایک روش کی بارش ہونا۔

سُحٌّ زَمِينٌ كُوصَافٌ كَرَدِينَا أَوْرِثَانٌ ذَالٌ دِينَا

..... الرَّيْحُ الْخَصِيُّ: ہوا کا ٹکڑیوں کو اڑانا

..... الْمَيِّتُ: میت کو قبلہ رو کرنا۔

أَوْجُهُ إِنْجَاهُهَا الرَّجُلُ: وجیہ بنانا۔ وجیہ

پانا۔ رد کرنا۔

وَأَجْهَةٌ وَجَاهًا وَمُؤَاجَهَةٌ: زور دہر و مقابلہ

کرنا۔ کہا جاتا ہے "لَقِيَهُ مُؤَاجَهَةً

وَوَجَاهًا" اس نے اس سے زور دہر و

ملاقات کی۔

تَوَجَّهَ إِلَيْهِ: متوجہ ہونا اور قصد کرنا.....

الْجَيْشُ: شکست کھانا..... الشَّيْخُ: بڑھا

ہونا۔

تَوَاجَهَ الرَّجُلَانِ أَوْ الْمَسْزُولَانِ: ایک

دوسرے کے مقابل ہونا۔

إِتَّجَهَ إِلَيْهِ: متوجہ ہونا..... لَهُ زَائِيٌ: خیال

سوچنا۔

السُّوَجُ: چہرہ۔ ج أَوْجَةٌ وَوَجْوَةٌ

وَأُجْوَةٌ. وَجْنَةُ الشُّوبِ وَنَحْوُهُ: کپڑے وغیرہ

کا سامنے کا پہلو۔ وَجْنَةُ الشَّهْرِ: زمانہ کا

اَوَّلُ۔ کہا جاتا ہے "تَحَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ

الشَّهْرِ" یہ زمانے کے شروع میں تھا۔

السُّوَجُ: مہم۔ جانب۔ قصد و نیت جس عمل

وغیرہ کی طرف انسان متوجہ ہو۔ عزت

و مرتبہ وَجْنَةُ الْكَلَامِ: مقصود کلام۔

رَضَامَنْدِي۔ کہا جاتا ہے "فَعَمِلَ ذَلِكَ

لِوَجْهِ اللَّهِ" اس نے اس نفل کو اللہ کی

رضامندی کے لئے کیا۔ "وَضَرَبَ وَجْنَةَ

الْأَمْرِ وَعَيْنَهُ" اس نے کام کی اچھی تدبیر

کی۔ "وَمَضَى عَلَى وَجْهِهِ" وہ لا پرواہی

سے گزر گیا! "بَيَّضَ وَجْهَهُ وَبَيَّضَ اللَّهُ

وَجْهَهُ" اس وقت کہا جاتا ہے جبکہ کوئی نفل

محمود کرے اور اس طرح اسوؤد وَجْهَهُ

وَسَوَّءَ اللَّهُ وَجْهَهُ" اس وقت بولا جاتا ہے

جبکہ نفل مذموم کرے..... ج وَجْوَةٌ: سردار

قوم اور کہا جاتا ہے "رُجُلٌ وَجْنَةٌ" یعنی

صاحب عزت و مرتبہ مرد۔ السُّوَجُ: نوع و قسم

جیسے "الْكَلَامُ فِيهِ عَلَى وَجْوَةٍ عَلَى أَرْبَعَةٍ

وَجْوَةٍ. وَلَيْسَ لِكَلَامِكَ وَجْنَةٌ" یعنی

تمہارے کلام کے لئے صحت کی کوئی صورت

نہیں "وَالْوَجْنَةُ أَنْ يَكُونَ كَذَا" یعنی ظاہری

قصد ہے کہ ایسا ہو "وَلِهَذَا الْقَوْلُ وَجْنَةٌ" یعنی

اس قول کے لئے ماخذ ہے "وَفَلَانٌ أَحْسَنُ

السُّوَمِ وَجْهًا" فلاں قوم کے لحاظ سے بہتر

حال میں ہے اس لئے کہ عموماً حسن ظاہر حسن

باطن پر دلالت کرتا ہے "وَضَرَفَ الشَّمْسُ

عَنْ وَجْهِهِ" اس نے چیز کو اس کے طریقے

سے پھیر دیا۔ "وَرُجُلٌ ذُو وَجْهَيْنِ" جبکہ

ضمیر کے خلاف ظاہر کرے۔

الْوَجْهَ وَالْوَجْهَ: تھوڑا پانی۔

الْوَجْهَ وَالْوَجْهَ: جانب۔ گوشہ۔

الْوَجْهَ وَالْوَجْهَ: صاحب عزت و مرتبہ۔

السُّجَّةُ وَالسُّجَّةُ وَالسُّجَّةُ ج جِهَاتِ

وَجِهَاتِ وَجِهَاتِ وَالسُّجَّةُ وَالسُّجَّةُ:

جانب۔ گوشہ جس کی طرف تم توجہ کرو۔ اور

کہا جاتا ہے "ضَلَّ وَجْهَهُ امْرَأَةٌ" وہ اپنے

مقصد سے بچل گیا۔

الْوَجَاهَةُ: مہم۔ مرتبہ۔ عزت۔ حرمت۔ کہا

جاتا ہے "لَهُ وَجَاهَةٌ عِنْدَ النَّاسِ" اس کی

لوگوں کے نزدیک عزت و حرمت ہے۔

السُّوَجِيَّةُ: مہم..... فِي عِلْمِ الْعَرُوضِ:

روی مقید کے قبل کے حرف کی حرکت

کا اختلاف۔ روی مطلق اور تائیس کا

درمیان۔ کہا جاتا ہے "هُمُ وَجَاهَةُ الْفَيْ" وہ

ایک ہزار کے قریب ہیں۔ کہا جاتا ہے

"وَجَاهَةٌ وَوَجَاهَةٌ وَوَجَاهَةٌ وَوَجَاهَةٌ

وَجَاهَةٌ وَوَجَاهَةٌ: سامنے۔ مقابل اور کہا

جاتا ہے "فَعَمِلُوا تَجَاهَةً وَجَاهَةً" وہ لوگ

اس کے سامنے بیٹھے۔

الْوَجِيَّةُ: سردار قوم۔ آبرو والا۔ مرتبہ والا ج

وَجِهَاءٌ مَوْنٌ وَجِهَةٌ ج وَجِهَاتٌ
وَجَائِسَةٌ مَوْنٌ مِنَ الْأَكْسِيَّةِ: دورخی
چادر۔ الوجیه: پاؤں کے بل پیدا ہونے
والا بچہ۔
الْوَجِيهَةُ: وجیہہ: کاموٹ۔ ایک قسم کا دو
رہ مہرہ جس میں صورت نظر آتی ہے اور
یسا اوقات اس کو نظر بد سے بچنے یا حصول
عزت کے لئے گردن میں لٹکتے ہیں۔
الْأَوْجُهَةُ: اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے "هُوَ أَوْجُهَةٌ
قَوْمِيهٌ" وہ اپنی قوم میں زیادہ مرتبہ والا ہے۔
کہا جاتا ہے نَظَرُوا إِلَيْهِ بِأَوْجُهَةٍ سُوْءٍ یعنی
انہوں نے مجھ کو بری نظر سے دیکھا۔
أَوْجُهَةٌ: جمع وجہ کی تغیر ہے۔
المَوْجُهَةُ: مرتبہ والا..... مِنَ الْكِبْسَاءِ: دورخی
چادر۔ مَوْجُهَةٌ: ایک روش پر مبنی ہوئی
چیز۔

السُّوْجُهَةُ: موص۔ کسی کا کلام یا چہرے سے
استقبال کرنا۔

وَجِي يَجِي وَيَجِي الرَّجُلُ: ناکارہ و نکما پانا۔
وَجِي يُوْجِي وَيُوْجِي وَتَوَجَّى الْمَأْشِي: تنگے
پاؤں ہونا یا قدم گھسنا۔ صفت وَج وَوَجِي
مَوْنٌ وَجِيَةٌ وَوَجِيَاءٌ۔

أَوْجِي يُسْجَاءُ الرَّجُلُ: پاؤں گھسانا۔ دینا
عَلَيْهِ: نکل کرنا..... عَنِ كَذَا: اعراض کرنا
..... الشُّي: دور کرنا..... فَلَانًا: حاجت سے
ہٹا دینا۔ کہا جاتا ہے "أَوْجَاهُ عَنَّهُ" اس نے
اس کو اس سے ہٹا دیا "وَأَوْجِيَتْ عَنْكُمْ
ظَلَمٌ فَلَانٌ" میں نے تم سے فلاں کے ظلم کو
دور کر دیا۔ اَوْجِي الرَّجُلُ: حاجت کے
لئے آنا اور ناکام واپس ہونا اور کہا جاتا ہے
"سَأَلَ خَاصَةً فَمَا وَجِي" اس نے حاجت کا
سوال کیا اور محروم رہا۔

الْوَجَاءُ: چھوٹی پوری۔ ج اَوْجِيَةٌ۔
الْوَجِي: نکمانا کارہ۔
الْوَجَابُ: اُونٹ کی ایک بیماری کا نام۔
وَجِيحٌ يُوْجِحُ وَوَجِيهَةٌ: پناہ لینا۔
أَوْجُهَةٌ: پناہ دینا۔

الْوَحْجُ: جائے پناہ۔

وَحْدٌ يَحْدُ وَوَحْدًا وَوَحْلَةٌ وَوَحْدَةٌ
وَوَحُوْدًا وَوَحْدٌ يَحْدُ وَوَحْدَةٌ وَوَحُوْدَةٌ:
اکیلا ہونا۔ صفت وَحِيْدٌ۔

وَحْدَةٌ تَوْحِيْدًا وَأَحْدَهُ: ایک بناؤ وَحْدَ اللّٰهِ
تَعَالَى: ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ یکتا کہا یا
لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ کہنا۔

أَوْحَدَهُ إِسْحَادًا: اکیلا چھوڑ دینا۔ یکتا جاننا
أَوْحَدَهُ لِلْأَعْدَاءِ: چھوڑ دینا۔ أَوْحَدَتْ
الشَّالَةَ: بکری کا ایک بچہ جتنا۔ صفت
مَوْحِدٌ۔

تَوَحَّدَ: تنہا باقی رہنا..... بِرَأْيِهِ: اپنی رائے
میں اکیلا رہنا۔ تَوَحَّدَ بِالْفَضْلِ: کسی پر
مہربانی کرنا اور دوسرے کی طرف سپرد نہ
کرنا۔

إِسْحَادَ الشُّيَانِ: ایک ہونا..... الشُّي
بِالشُّي: ایک چیز کا دوسری چیز سے کھل مل
جانا..... الْقَوْمُ: متفق ہونا۔

الْوَحْدُ: موص۔ کہا جاتا ہے "زَأَيْتُهُ وَوَحْدَهُ أَوْ
جَاءَ وَوَحْدَهُ" میں نے اس کو اکیلا دیکھا یا وہ
اکیلا آیا۔ مصدر ہونے کی وجہ سے اس کا
شثیر جمع نہیں آتا اور یہ حالت کی وجہ سے
بتقدیر منفرد منصوب ہے اور بعضوں کے
نزدیک اسم ممکن ہے کہا جاتا ہے "جَلَسَ
وَوَحْدَهُ وَعَلَى وَوَحْدِهِ وَعَلَى وَوَحْدِهِمَا
وَوَحْدَيْهِمَا وَوَحْدِهِمْ" اور بعضوں کے
نزدیک اس کی اضافت صرف فَلَانٌ نَيْبِجٌ
وَوَحْدِهِ بصورت مدح اور عَيْسُرٌ وَوَحْدِهِ یا
جَحِيْشٌ وَوَحْدِهِ: بصورت ذم میں ہوتی ہے
اور کبھی رَجِيْلٌ وَقَدِيْهٌ بھی کہتے ہیں۔ رَجُلٌ
وَوَحْدٌ تنہا مرد۔ أَجِيْرُ الْوَحْدِ: آجیر خاص۔

الْوَأْحْدَانِي: اکیلا۔
الْوَحْدَانِيَّةُ: اکیلا ہونے کی حالت۔
الْوَحْلَةُ الْفَلِكِيَّةُ: زمین کی سورج سے
دوری کی مسافت جو کہ مساوی:
(۱۳۹۵۰۰۰ کلومیٹر) ہے۔
الْحِدَّةُ: موص۔ کہا جاتا ہے "بَقِيَ عَلَيَّ

حَدِيْتِهِ" وہ تنہا باقی رہا۔ "وَفَعَلَهُ عَلَيَّ ذَاتَ
حَدِيْتِهِ وَمِنْ ذَاتِ حَدِيْتِهِ وَمِنْ ذِي حَدِيْتِهِ"
اس نے اس کو خود بخود بغیر کسی کی مدد و رائے
کے کیا۔

الْوَحْدَةُ: موص۔ تنہائی۔
الْوَحْدُ وَالْوَجْدُ: اکیلا۔ مَوْنٌ وَوَحْدَةٌ
وَوَحْدَةٌ۔

الْأَحْدُ: اکیلا۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ أَحَدٌ"
اکیلا مرد۔ اس کی اصل وَوَحْدٌ ہے واؤ کو ہمزہ
سے بدل دیا گیا ہے "الْأَحْدُ" لاثانی۔ بے
نظیر اور لفظ احد دو موقعوں پر واحد کا
مترادف ہے۔ ایک باری تعالیٰ کی صفت
میں کہا جاتا ہے "هُوَ الْوَاحِدُ وَهُوَ الْأَحْدُ"
اور اس معنی کے لحاظ سے باری تعالیٰ کے
علاوہ کسی دوسرے کی صفت واقف نہیں ہوتا۔

دوسرے اسماء عدد میں جیسے أَحَدٌ وَعِشْرُوْنَ
وَوَاحِدٌ وَعِشْرُوْنَ اور لفظ احد: مذکر کے
لئے آتا ہے بھی مَوْنٌ کے لئے بھی اطلاق
ہوتا ہے جیسے "لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ"
اس وقت شئی کے معنی میں ہے اور احد کی
تانیث احدی ہے۔ اور اس کا استعمال
دوسرے کے ساتھ مل کر ہوتا ہے جیسے اَحْدَى
وَعِشْرُوْنَ وَاَحْدَى عَشْرَةَ وَاَحْدَى بَنَاتٍ
طَبَقِي: مصیبت۔ سانپ اور کہا جاتا ہے "هُوَ
إِنْسَانٌ أَحْدَاهَا" وہ شریف ماں باپ والا
ہے (آدمی ہو یا اُونٹ) ضمیر امہات کی
طرف راجع یوم ہے۔ يَوْمٌ الْأَحْدِ: اتوار کا
دن۔ ج اَحَادٌ۔

السُّوْجِدُ: ایک مَوْنٌ وَوَاحِدَةٌ شثیر
وَاحِدَانٌ ج وَوَاحِدُوْنَ: لاثانی۔ کہا جاتا ہے
"هُوَ وَوَاحِدٌ قَوْمِيهٌ" وہ اپنی قوم میں لاثانی
ہے یعنی علم و فضیلت وغیرہ میں بڑھا ہوا ہے
ج وَوَحْدَانٌ وَأَحْدَانٌ: اور وَوَاحِدٌ کا استعمال
أَحْدٌ کے معنی میں ہے۔ یعنی یکتا و لاثانی
ہے۔ اسماء حسی میں اس معنی کے لحاظ سے
ہے اور کبھی عدد کی صفت میں آتا ہے جیسے
أَلْفٌ وَوَاحِدٌ وَعَشْرَةٌ وَوَاحِدَةٌ۔

الْوَحِيدُ: اکیلا۔

الْأَوْحَدُ: واحد سے صفت کا صیغہ ہے اور اسی سے ہے "اللَّهُ الْأَوْحَدُ" یعنی اللہ وحدانیت والا ہے اور کہا جاتا ہے "هُوَ أَوْحَدُ أَهْلِ زَمَانِهِ" وہ اپنے زمانے والوں میں بے نظیر ہے بِحِ اَحْدَانٍ وَلَسْتُ فِي هَذَا الْأَمْرِ بِأَوْحَدٍ" میں اس کام میں اکیلا نہیں ہوں اور مَوْنُث کے لئے وَحْدَاءُ کا صیغہ نہیں آتا۔

وَحَادٍ وَالْأَحَادُ وَمَوْحِدٌ: ایک ایک واحد واحد سے معدول ہے۔ تم کہتے ہو "جَاءَ وَأَوْحَادٌ وَأَحَادٌ وَمَوْحِدٌ" لوگ ایک ایک کر کے آئے اور ایسا ہی مَوْنُث کے لئے بھی اور یہ عدل اور صفیت کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔

السُّوْحِيدُ: مص۔ باری تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتقاد۔

الْإِتْحَادُ أَوْ الْجِسْمُ الْمُرْتَكِبُ: (کیمیاء) دو یا دو سے زیادہ بسیط جسموں کے ذرات کے درمیان نسبت تامہ کے ساتھ مضبوط ترکیب کا نتیجہ۔ جیسے پانی آکسیجن اور ہائیڈروجن سے مرکب ہے۔ اور یہ مرکب جسم اپنے مرکبات سے مکمل مختلف ہوتا ہے۔

الْإِتْحَادِي: کام کرنے والوں کی تنظیم کارکن سیاسی اتحادی کا ماہر۔ الْإِتْحَادِيَّةُ: اتحاد کی صفت۔ مزدوروں کی یونین۔

المُوْتَحِدُ: قا۔ اللہ کی وحدانیت کا معتقد۔ المُوْتَحِدُ مِنَ الْمُتَحَرِّفِ: ایک نقطہ والا حرف جیسے پ۔

الْبَيْتْحَادُ: اکیلا ٹیلہ۔ جِ مَوَاحِيْدُ وَجِزْ يَجْزُو وَيُوْحَرُ وَيُنْحَرُ وَحَرَا عَلَيْهِ: تخت غضبناک ہونا اور کینہ رکھنا۔ صفت وَجْرٌ۔

وَجْرٌ يُوْحَرُ وَحَرَا وَوَجْرَةٌ: چھپکلی کے مانند ایک زہریلا جانور۔ زہر آلود چیز کو کھانا پینا اور زہر کا اثر کرنا۔ الطَّعَامُ: وحڑہ سے زہر آلود ہونا۔ صفت وَجْرٌ۔

أَوْحَرَةٌ: غیظ و غضب میں ڈالنے والی باتیں سنانا۔ أَوْحَرَتِ الْوَحْرَةَ الطَّعَامَ: زہر آلود کر دینا کہ جس کے کھانے والے کو قتل آنے لگے یا پیٹ چلنے لگے۔

الْوَحْرُ: کینہ۔ تخت غضب۔ خیانت۔ الوَحْرُ: مص۔ کینہ۔ کینہ کی سوزشیں۔ الوَحْرَةُ: چھپکلی کے مانند ایک چھوٹا سا جانور جس کے متعلق مشہور ہے کہ جس چیز پر چلتا ہے وہ زہر آلود ہو جاتی ہے۔ پستہ قد عورت یا أَوْنَتٌ وَوَحْرٌ. اِمْرَاةٌ وَوَحْرَةٌ: سیاہ رنگ کی بد صورت عورت یا سرخ رنگ کی پستہ قد عورت۔

وَحْشٌ يَجْشُ وَوَحْشًا بِشَوْبِهِ أَوْ بِسَلْحِهِ: کپڑا یا ہتھیار بھاگنے میں خوف کی وجہ سے پھینک دینا۔

أَوْحَشَ إِيْحَاشًا الْمَكَانَ: ویران ہونا۔ الْمَكَانَ: خالی پانا۔ الرَّجُلُ: بھوکا ہونا۔ بے توشہ ہونا۔ السَّرْجُلُ: وحشت محسوس کرنا۔

تَوْحَشَ: وحشی کے مانند ہونا۔ بھوک کی وجہ سے پیٹ خالی ہونا۔ کپڑے پھینکنا۔ الْمَكَانَ: ویران ہونا۔

اسْتَوْحَشَ: وحشت محسوس کرنا۔ مِنْهُ: مانوس نہ ہونا۔ الْمَكَانَ: ویران ہونا۔

الْوَحْشُ: مص۔ جنگلی جانور۔ جِ وَوَحْشٌ وَوَحْشَانٌ وَاجِدٌ وَوَحْشِيٌّ: جسمناز وحش و جَمَازٌ وَوَحْشِيٌّ: جنگلی گدھا۔ وَبَقَرٌ الْوَحْشِ: تیل گائے۔ کہا جاتا ہے "مَسْكَانٌ وَوَحْشٌ" ویران و خالی جگہ۔

"وَمَشَى فِي الْأَرْضِ وَوَحْشًا" وہ تہا گیا "وَبَسَاتِ وَوَحْشًا" اس نے بھوکے رات گزاری اور جمع کی صورت میں تم کہو گے "هَمُّ أَوْحَاشٍ" اور کہا جاتا ہے "هُوَ مِنْ وَوَحْشِ النَّاسِ" وہ سفار لوگوں میں سے ہے۔

السُّوْحَشَةُ: تہائی۔ تہائی کی وجہ سے خوف یا طبیعت کا متعجب ہونا۔ غم۔ بے تعلق۔

دوستی۔ محبت کی دوری۔ ویران زمین۔ الوَحْشِيَّةُ: وَوَحْشٌ: کا واحد۔ لوگوں سے بدکنے والا۔ ہر چیز کا دایاں پہلو۔ مِنْ الْقَوَسِ: کمان کی پشت۔ الوَحْشِيَّةُ مِنَ الْبَيْتِ وَنَحْوِهِ: جنگلی انجیر۔

السُّوْحِيَّةُ وَوَحْشِيٌّ: کاموٹ۔ تیز ہوا جو کپڑوں میں داخل ہو جائے۔ السُّوْحِيَّةُ: جنگلی جانور۔ السُّوْحِيَّةُ: الْوَحْشِيَّةُ: جنگلی جانور۔

الْوَحْشَانُ: غمگین۔ جِ وَوَحْشِيٌّ: اَرْضٌ مَوْحُوْشَةٌ: جنگلی جانوروں والی زمین۔

وَحْفٌ يَجْفُ وَوَحْفًا الْبِعْرُ أَوْ الرَّجُلُ: زمین پر گر پڑنا۔ مِنْهُ: قریب ہونا۔ إِلَيْهِ: توجہ کرنا۔ إِلَى كَذَا: تیز چلنا۔

وَحْفٌ يَسُوحِفُ وَوَحْفًا وَوَحْفٌ يَسُوحِفُ وَوَحْفًا: حَفٌّ وَوَحْفَةٌ الشَّعْرُ أَوْ النَّبَاتُ: گنجان ہونا۔

وَحْفٌ: تیز چلنا۔ زمین پر گر پڑنا۔ فَلَانًا: ذندے سے مارنا۔

أَوْحَفَ إِيْحَافًا: تیز چلنا۔ جلدی جانا۔ السُّوْحَفُ: مص۔ خوبصورت گنجان کالے بال۔ تازہ گھاس۔ (السُّوْحَفُ) وَالسُّوْحَفُ: الْإِيْحَافِيَّةُ: بہت پروں والا بازو۔

الْوَحْفُ: مص۔ خوبصورت گنجان بال۔ السُّوْحَفَةُ: وَوَحْفٌ: کا اسم مرتہ۔ کالا پتھر۔ گول۔ بلند کالی زمین۔ آواز۔ جِ وَوَحْفٌ۔

الْوَحْفَاءُ مِنَ الْأَرْضِ: وہ زمین جو سکستان نہ ہو اور اس میں کالے پتھر ہوں۔ سرخ زمین۔ جِ وَوَحْفِيٌّ۔

السُّوْحَفُ: اُونٹوں کے بیٹھے کی جگہ۔ جِ مَوَاحِفُ۔

السُّوْحَفُ مِنَ النَّوْقِ: ہمیشہ اپنے تھان پر رہنے والی اونٹنی۔ جِ مَوَاحِفُ۔

بُعِيْرٌ مَوْحَفٌ: دُبا اونٹ۔ وَجِلٌ يَسُوحِلُ وَوَحْلًا وَمَوْحَلًا: کچھڑ میں

<p>پر استعمال ہونے لگا جس کی وحی ہو (.....وَالْوَحَاةُ) آواز۔ الْوَحَى: بمص۔ آواز۔ جلدی۔ بڑا سردار۔ بادشاہ۔ آگ ج وُحِیٰ اور جلدی کرانے کے لئے بولا جاتا ہے "الْوَحَى الْوَحَى" "وَالْوَحَاكُ الْوَحَاكُ" یعنی سبقت کرو سبقت کرو۔</p>	<p>والا ہونا۔ الْوَحْنَةُ: اسم مرۃ۔ پھسلانے والی کچھڑ۔ وَحْوَح: آواز گلوگرفنہ نکالنا۔ سخت سردی کی وجہ سے ہاتھوں میں پھونکنا اور اُح یا حو حو کہنا۔ تَوَحَّوْح: الظَّلِيمُ فَوْقَ الْبَيْضِ: شتر مرغ کا انڈوں پر شیشنگی ظاہر کرنا۔</p>	<p>پڑنا۔ أَوْحَلَهُ: کچھڑ میں ڈالنا..... ہ شَرًّا: برائی میں پھنسا دینا۔ وَإِحْلَهُ مُوَاحَلَةً: کچھڑ میں گھسنے میں مقابلہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "وَإِحْلَهُ فَوْحَلَهُ" اس نے کچھڑ میں گھسنے میں مقابلہ کیا اور غالب رہا۔ إِحْلَاحٌ إِحْلَالًا فِیْ یَمِینِهِ: قسم کھانے میں استثاء کرنا۔</p>
<p>الْوَحَى: فَا۔ ج وَاخُونٌ وَوَحَاةٌ. الْوَحَى: بہت جلدی۔ کہا جاتا ہے "مَوْتُ وَحَى" جلدی کی موت۔ "وَذُخَاةٌ وَحِیَّةٌ" جلدی کا ذبح۔ الْأَوْحَى: زیادہ تیز۔ کہا جاتا ہے "الْقَتِيلُ بِالسَّيْفِ أَوْحَى" تلوار سے قتل جلدی واقع ہوتا ہے۔</p>	<p>الْوَحْوَحُ وَالْوَحْوَاةُ: قوی۔ کتا۔ آواز نکالنے والا۔ الْوَحْوَحُ: جلدی باز تیز آدمی۔ ہلکا پھلکا آدمی۔ ج وَاوْحٍ وَالْوَحْوَاةُ: سردار اور رئیس ج وَاوْحٍ وَوَحَاةٌ. وَحَى یَحِی وَحَا یَحِی الْفُلَانُ: اشارہ کرنا۔ پینا مہر بھیجنا..... الْبِئْسَ مَا وَحَى إِلَیْهِ كَلَامًا: چپکے سے گفتگو کرنا یا دوسروں سے پوشیدہ بات کہنا اللَّهُ فِی قَلْبِهِ كَذَا: دل میں ڈالنا الْكِتَابُ: لکھنا..... الدَّبِيحَةُ: جلدی سے ذبح کرنا..... وَحَا وَوَحَى وَوَحَا (وَقَوْحَى) جلدی کرنا۔</p>	<p>تَوَحَّل: کچھڑ میں لت پت ہونا..... وَإِسْتَوْحَلَ الْمَكَانَ: کچھڑ والی ہونا۔ الْمَوْحِلُ بِالسِّنِّينِ: محل میں ایک آدمی کی لفت۔ الْمَوْحِلُ: کچھڑ۔ ج أَوْحَالَ وَوَحُولُ. الْمَوْحِلُ: کچھڑ میں لت پت۔ السَّمْوَجِلُ: کچھڑ کی جلد۔ کچھڑ میں گرتا۔ یہ وجہ سے اسم ہے۔</p>
<p>وَخَدٌ یَجِدُ وَخَدًا وَوَحِيدًا وَوَحْدَانًا الْبَعِيرُ: اونٹ کا تیز دوڑنا اور ناگوں کو شتر مرغ کی طرح ڈالنا۔ صفت وَوَحْدٌ وَوَحْدَةٌ وَوَحْدًا. الْوَحْدُ وَوَحْدٌ: کا اسم ج وُحُوْدٌ. وَخَزْوَةٌ یَخْزُو وَخَزَا: چھبونا..... الشَّبَبُ: سر کے بالوں کا کچھڑی ہونا..... الْفُلَانُ: شہد کا شرید بنانا۔</p>	<p>وَخَسَتْ الْمَرْأَةُ تَحَمُّمًا وَتَوَحَّمًا وَخَمًا وَتَوَحَّمَتْ: حاملہ ہونے کی وجہ سے بعض چیزوں کے کھانے کا خواہش مند ہونا۔ کھانے کی خواہش بدل جانا یا کم ہو جانا۔ صفت وَخَمَى ج وَاوْحَمَ وَخَامَى اور اسی سے مثال ہے۔ "وَخَمَى وَلَا خَمِلَ" اس لاچی کے متعلق بولتے ہیں جو بغیر ضرورت کے بہت سوال کرے۔</p>	<p>وَخَمَتْ الشَّیْءُ: خواہش کرنا۔ وَخَمَتْ وَخَمَةً: ارادہ کرنا۔ وَخَمَ الْخَمَلِيُّ: حاملہ کو خواہش کے مطابق کھلانا..... لَهَا: حاملہ کی خواہش کے مطابق ذبح کرنا یا پیش کرنا۔</p>
<p>الْوَحْرُ: بمص۔ ہر چیز کا تھوڑا اور کہا جاتا ہے "بَجَاوًا وَخَزَا وَوَحَزَا" چار چار آئے۔ الْوَحِيزُ: شہد کا شرید۔ وَخَشَّ یَسُوحَشُ وَوَحُوشَةٌ وَوَحَاشَةٌ وَوَحُوشَا الشَّیْءُ: کھما اور ردی ہونا..... رَأْسُ الْکَبِشِ: خشک ہونا اور سکڑنا۔ وَخَشَّ الشَّیْءُ: کھما اور ردی کرنا..... الْعَطِیَّةُ: کم دینا۔</p>	<p>أَوْحَى إِسْحَاءً إِلَى الْفُلَانِ: اشارہ کرنا۔ دوسروں سے چھپا کر بات کہنا۔ برا بیچھنتہ کرنا اللَّهُ إِلَیْهِ یَكْذِبُ: وحی بھیجنا..... الْکِتَابُ: لکھنا..... نَفْسُهُ: خوفزدہ ہونا..... الرَّجُلُ: محتاجی کے بعد بادشاہ ہونا..... الْقَوْمُ: چلانا الْعَمَلُ: جلدی کرنا..... الدَّوَاءُ: الْمَوْتُ: جلدی موت واقع کرنا۔ وَخَى تَوَحَّيَةً. ذَبِيحَتَهُ: جلدی ذبح کرنا۔ وَخَاهُ: جلدی کرنا۔ کہا جاتا ہے "وَحَى الدَّوَاءُ الْمَوْتُ" روانے فوراً موت واقع کی۔</p>	<p>السَّوْحَمُ: بمص۔ حاملہ کی خواہش۔ پرندہ کی پھڑ پھڑاہٹ اور کہا جاتا ہے "تَبَلَّةُ ذَاتِ وَحْمٍ" بہت گرم رات۔ الْوَحَامُ وَالْوَحَامُ: حاملہ کی خواہش۔ الْوَحِيمُ: بہت گرم دن۔ وَخَنٌ یَجْنُ وَوَحْنٌ یُوحِنُ وَوَحْنًا وَوَحْنَةً عَنْ فُلَانٍ: کیڑہ رکھنا۔ تَوَحَّنٌ: ذلیل ہونا۔ ہلاک ہونا۔ بڑے پیٹ</p>
<p>تَوَاحَى تَوَاحِيًا الْقَوْمُ: بعض کا بعض کے ساتھ جلدی کرنا۔ إِسْتَوْحَاهُ: پکارنا۔ جلدی کرانا..... هُ الشَّيْءُ: دریافت کرنا۔ الْوَحَى: بمص۔ لکھا ہوا پیغام۔ ہر وہ چیز جو دوسرے کو معلوم ہونے کے لئے تم پیش کرو۔ پھر غالب طور پر انبیاء علیہم السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو القاء ہوا اس</p>	<p>تَوَاحَى تَوَاحِيًا الْقَوْمُ: بعض کا بعض کے ساتھ جلدی کرنا۔ إِسْتَوْحَاهُ: پکارنا۔ جلدی کرانا..... هُ الشَّيْءُ: دریافت کرنا۔ الْوَحَى: بمص۔ لکھا ہوا پیغام۔ ہر وہ چیز جو دوسرے کو معلوم ہونے کے لئے تم پیش کرو۔ پھر غالب طور پر انبیاء علیہم السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو القاء ہوا اس</p>	<p>تَوَاحَى تَوَاحِيًا الْقَوْمُ: بعض کا بعض کے ساتھ جلدی کرنا۔ إِسْتَوْحَاهُ: پکارنا۔ جلدی کرانا..... هُ الشَّيْءُ: دریافت کرنا۔ الْوَحَى: بمص۔ لکھا ہوا پیغام۔ ہر وہ چیز جو دوسرے کو معلوم ہونے کے لئے تم پیش کرو۔ پھر غالب طور پر انبیاء علیہم السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو القاء ہوا اس</p>

أَوْخَصَّ إِتْخَاصًا فَلَانَّ لِي بِعَظِيَّةٍ كَمْ دِينَا -
 وَخَصَّ يَخِيضُ وَخَصَّ فَلَانًا بِالرُّمُحِ : نیزہ
 چھبونا..... ء الشَّيْبُ : بڑھا پے کا سر کے
 بالوں کو کھجڑی کر دینا۔
 الْوُجِيضُ : نیزہ زدہ۔
 وَخَطَّ يَخِطُّ وَخَطَّ فَلَانًا بِالرُّمُحِ : نیزہ
 مارنا وَخَطَّهُ بِالسَّيْفِ : دُور سے تلوار سے
 کو چننا۔
 ء الشَّيْبُ : سر کے بالوں کا کھجڑی ہونا۔
 وَخَطَّ فِي الْبَيْعِ : کبھی فائدہ کبھی نقصان
 اٹھانا۔
 وَخَطَّ : سر کے بالوں کا کھجڑی ہونا۔
 الْوُخَاطُ : تیز اور کشادہ قدم چلنے والا۔ شتر
 مرغ یا اونٹ۔ طَعْنُ او رُمُحٌ وَخَاطٌ : پار
 ہونے والا نیزہ۔
 الْيَخِيضُ : پار ہونے والا۔
 وَخَفَّ يَخْفُفُ وَخَفَّ السَّوِيْقُ : ستو گوند جتنا
 اور لیس دار بنانا..... السَّوِيْقُ : ستو گوندھا
 ہوا اور لیس دار ہونا..... السَّرْجَلُ : بدگوئی
 کرنا۔ بُدَائِي سے یاد کرنا۔
 وَخَفَّ وَ أَوْخَفَّ السَّوِيْقُ : ستو گوندھنا اور
 لیس دار بنانا اور اسی سے عرب کا قول ہے
 "إِنَّهُ لَيُؤَخِفُ فِي الْبَطْنِ" اس احمق کے لئے
 بولتے ہیں جو خود اپنے ہی قول کو نہیں جانتا۔
 إِتْخَفَّتْ وَجِلَّةٌ : پاؤں کا پھسلنا۔
 الْوُخْفَةُ : اسم مرۃ۔ خریطہ کے مانند چمڑے کا
 تھمبلا۔
 الْوُخْفَةُ : ستو وغیرہ جو گوندھا جائے۔
 الْمُوخِفُ : بے وقوف۔
 الْيَخِيضُ : ستو گوندھنے کا برتن۔
 وَخَمَّ يُوخِمُ وَخَسَمَ وَوُخِمَةٌ وَوُخْمًا
 السَّمَكَانُ او الطَّعَامُ : مضر صحت یا ناقابل ہضم
 ہونا۔
 وَخَمَّ يَخْمَسُ وَخَمًّا : زیادہ بڑھتی والا
 ہونا۔ وَخَمَّ يُوخِمُ وَخَمًّا وَإِتْخَمَ مِنْ
 وَعَنَهُ : بڑھتی ہونا۔
 وَأَخَمَهُ مَوَآخِمَةً فَوُخِمَهُ (ض) وَخَمًّا :

بڑھتی میں مقابلہ کرنا اور غالب آنا۔
 اِتْخَمَهُ اِتْخَامًا الطَّعَامُ : بڑھتی میں مبتلا کرنا
 (اس کی اصل اُوخَمَهُ ہے اور اصل کا
 استعمال نادر ہے)
 وَخَمَّ الشَّيْبُ : مضر صحت بنانا۔
 تَوَخَّمَ وَاسْتَوَخَّمَ الطَّعَامَ : کھانے کو
 نا خوشگوار سمجھنا۔ اِسْتَوَخَّمَ الْمَكَانَ : کسی جگہ
 کی آب و ہوا کو نا موافق پانا۔
 الْمُوخِمُ وَالْوُخِمُ مِنَ الرَّجَالِ : ست ج
 اُوخَام. شَيْ وَجِيْمٌ : بڑا زدہ۔
 الْوُخِمُ : ہمس۔ بوا سیر کے مانند ایک مرض۔
 ہوا کا خراب ہونا جس سے امراض و پائیدہ
 پیدا ہوں۔ ضرر کے لئے استعارہ کیا جاتا
 ہے۔
 الْوُخِيمُ وَالْوُخُوْمُ مِنَ الرَّجَالِ : گند۔
 ست۔ ج وَخَامِي وَوِخَامٍ. بَلَدٌ وَجِيْمٌ :
 نا موافق شہر۔ شَيْ وَجِيْمٌ : بڑا زدہ۔ اَمْسَرَ
 وَجِيْمٌ الْعَاقِبَةُ : مضر ردى۔
 اَرْضٌ وَخَمَةٌ وَوِخَمَةٌ وَوِخَامٌ وَوُخُوْمٌ
 وَجِيْمَةٌ وَمُؤِخِمَةٌ وَمُؤِخَمَةٌ :
 مضر صحت گھاس والی زمین۔ بڑا زدہ
 زمین۔
 الشَّخْمَةُ : بڑھتی (اس کی اصل وَخَمَةٌ ہے)
 ج تَخْمَاتٌ وَتَخَمٌ کہا جاتا ہے "هَذَا
 الطَّعَامُ مَتَخَمَةٌ" یہ خوراک مضر صحت ہے
 (اس کی اصل مُؤخَمَةٌ ہے)
 تَوَخَّنَ : خیر یا شر کا ارادہ کرنا۔
 الْوُخْنَةُ : نساد۔
 وَخِي يَخِي وَخِيًا الْأَمْرُ : قصد کرنا۔ وَخِيَتْ
 النَّاقَةُ : اونٹنی کا متوسط چال چلنا۔ کہا جاتا ہے
 "وَخِي وَخِيَةً" اس نے اس کا ارادہ کیا "وَمَا
 أَقْرَبُ أَيْسَنَ وَخِي" میں نہیں جانتا اس نے
 کہاں توجہ کی۔
 وَخِي الْأَمْرُ : طلب کرنا..... ء لِلْأَمْرِ : متوجہ
 کرنا۔
 وَأَخِي مَوَآخِةً فَلَانًا : بھائی بندی کرنا (آخَاةً
 میں ایک ضعیف لغت ہے)

تَوَخَّى تَوَخْيًا وَتَأَخَى تَأَخْيًا الْأَمْرُ : قصد
 کرنا۔ طلب کرنا۔
 اِسْتَوَخَى الْقَوْمَ : خیر طلب کرنا۔
 الْمُوخِي : ہمس۔ ارادہ۔ قابل اعتماد راستہ۔
 ارادہ کرنے والا۔ ج وَخِيٌّ وَوِخِيٌّ.
 الْوِخِي وَالْوِخِيَّةُ : ارادہ۔
 وَذَةٌ يَسُوذُهُ وَذًا وَوَذًا وَوَذَا وَوَذَاذًا
 وَذَاذًا وَوَذَاذَةً وَمُؤِذَةٌ وَمُؤِذُوذَةٌ :
 خواہش کرنا۔ محبت کرنا۔ کہا جاتا ہے "وَزِدْتُ لَوْ
 كُنْتُ كَمَا وَلَوْ أَنْتَ فَعَلْتُ كَمَا" مجھے تمنا
 ہے کہ ایسا ہوتا مجھے تمنا ہے کہ تم ایسا کرتے۔
 (لو اس مقام میں موصول حرفی ہے)
 وَآذَةٌ وَذَاذًا وَمُؤَادَةٌ : محبت ظاہر کرنا۔
 تَوَذَّدَةٌ : دوستی چاہنا۔ تَوَذَّدَ إِلَيْهِ : دوستی کرنا۔
 تَوَادَّدَ الرَّجُلَانِ : آپس میں ایک دوسرے
 سے محبت کرنا۔
 الْوِذُّ وَالْوِذُّ وَالْوِذُّ : محبت۔ دوستی۔ تم کہتے
 ہو "تَوَذَّى أَنْ يَكُونَ كَمَا" میں چاہتا ہوں
 کہ ایسا ہو محبت کرنے والا یا بہت محبت
 کرنے والا۔ ج أُوذَاذُو أُوذُوذًا کہا جاتا
 ہے "هُوَ وَذُكٌ وَهُمْ أُوذَاذُكٌ" اور وُذُّ
 تشبہت واو سے اسم جمع بمعنی حسین ہے۔
 جیسے قَوْمٌ وَذٌّ.
 السَّوْذُودُ : بہت محبت کرنے والا۔ محبوب۔ تم
 کہو گے "هُوَ ذُوذُوذِي وَوِذُوذِي".
 الْوِذِيْدُ : محبت کرنے والا۔ ج أُوذِيَّةٌ وَأُوذِيَّةٌ
 اور وِذِيْدًا اسم جمع بمعنی حسین بھی ہے۔
 الْاُوْذُ : اسم تفضیل ج أُوذُوذُنْ.
 الْمِوْذُ : بہت محبت کرنے والا۔
 وَذًا يَذُّ وَآذًا الشَّيْءُ : برابر کرنا..... بِالْقَوْمِ :
 بد سلوکی کرنا۔
 وَذِي يَسُوذُ وَذَةً : منقطع ہونا۔ کہا جاتا ہے
 "وَزِدْتُ الْاِخْتِيَارَ عَنْهُ" اس کی خیریں منقطع
 ہو گئیں۔
 وَذًا تَوَذِيْنَا وَتَوَذِيْنَا عَلَيْهِ الْأَرْضُ : ہموار
 کرنا..... عَلَيْهِ وَبِهِ : ہلاکت کرنا۔ وَذَانَهُ
 الْأَرْضُ : چمپا لینا۔

تَوَدَّ عَلَيْهِ هَلَاكُ كَرْنَا تَوَدَّاتٌ عَلَيْهِ
 الْأَرْضُ: اُوپر گر پڑنا اور ہموار ہونا..... عَلَيْهِ
 وَعَنْهُ الْأَخْيَارُ: خیریں منقطع ہونا..... تَوَدَّأُ
 الرَّجُلُ: مرنا..... فَلَانَ عَلَيَّ مَالِيهَ: لینا اور
 جمع کرنا۔
 الْوَدَّاءُ: مص۔ ہلاکت۔ التَّوَدُّدُ: مص۔ دفن
 کرنا۔
 الْمُوَدَّاةُ: ہلاکت۔ بیابان۔ میت کا گڑھا۔
 الْوَدْبُ: بد حالی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ عَلَيَّ
 وَدْبٌ" وہ بد حالی میں مبتلا ہے۔
 وَدَّجَ يَدَّجُ وَدَجًا وَوَدَّجَ الدَّابَّةُ: جو پایہ کی
 گردن کی رگ کا ثنا۔ وَوَدَّجَ يَسُنُّ الْقَوْمُ:
 معاملات درست کرنا۔ شرفسا دور کرنا۔
 وَادَّجَهُ مُوَادَّجَةً: صلح کرنا۔ نرمی برتنا۔
 الْوُدَّاجُ: ج. اُوْدَاجٍ وَالْوُدَّاجُ: گردن کی رگ
 جو غصہ کے وقت پھول جاتی ہے اور بقول
 بعض وَوَدَّجَ اس رگ کو کہتے ہیں جس کو وَوَدَّجَ
 کرنے والا کا ثنا ہے۔ السُّوَدَّاجُ: وسیلہ۔
 سبب۔ کہا جاتا ہے "نَحْنُ فَلَانٌ وَوَدَّجِي الْي
 كَمَا" یعنی فلاں شخص میرے لئے فلاں چیز
 کے لئے وسیلہ ہے ج. اُوْدَاجِ الْوُدَّاجَانِ: دو
 بھائی۔ کہا جاتا ہے "بِنَسْنِ وَوَدَّجَا حَوْبٍ
 هُمَا" وہ دونوں لڑائی کے دو درے بھائی
 ہیں۔
 اُوْدَّجَ لَهُ: مطیع ہونا۔ اقرار کرنا..... الْاِبْلُ:
 اُونٹ کا موٹا ہونا۔ اچھی حالت والا ہونا
 الْخَوْضُ: حوض کو درست کرنا۔
 الْوُدَّحَةُ: تھوڑی چیز۔ کہا جاتا ہے "فَمَا اَعْنِي
 عَيْنِي وَوَدَّحَةً" اس نے مجھ کو کچھ فائدہ نہیں
 دیا۔
 وَوَدَّيْدِرٌ وَوَدَّرَا: بے ہوشی طاری ہونے کے
 قریب تک مست ہونا..... الشُّيُ: دُور کرنا۔
 علیحدہ کرنا۔
 وَوَدَّرَةٌ: ہجر کا کر ہلاکت میں ڈالنا۔
 وَوَدَّرَ السُّؤْلُ: قاصد بھیجنا..... الشُّيُ: دُور
 کرنا۔ علیحدہ کرنا..... السَّمَالُ: فضول خرچی
 کرنا..... الرَّجُلُ: گمراہ کرنا۔

تَوَدَّرَ: فضول خرچ ہونا..... فِي الْأَمْرِ: پڑنا
: ہلاکت میں ڈالنا۔
 وَوَدَّسَ يَدِّسُ وَوَدَّسًا عَلَيَّ الشُّيُ: پوشیدہ
 رہنا..... بِالشُّيُ: چھپانا..... إِلَيْهِ بِكَلَامٍ
 : ادھوری بات کہنا..... الرَّجُلُ: جانا۔
 وَوَدَّسَ الشُّيُ: پوشیدہ ہونا۔ وَوَدَّسَتِ
 السَّمَاشِيَةُ: ہریاول چرنا..... إِلَيْهِ بِكَلِمَةٍ
 : کوئی بات کہنا۔
 وَوَدَّسَ وَوَدَّسَ وَوَدَّسَ الْمَكَانُ: ہریاول
 والا ہونا۔
 اُوْدَّسَتِ الْأَرْضُ: اتنا اگنا کہ سطح زمین
 چھپ جائے۔
 الْوَدَّسُ وَالْوَدَّاسُ وَالْوَدَّاسُ: نباتات جو
 سطح زمین کو چھپالے۔ الْوَدَّسُ: عیب۔
 الْوَدَّيْسُ: خشک نباتات۔ پتلا شہد۔
 اَرْضٌ مُوَدَّوْسَةٌ: کم گھاس والی زمین۔
 وَوَدَّصَ يَدِّصُ وَوَدَّصًا إِلَيْهِ بِكَلَامٍ: ادھوری
 بات کہنا۔
 وَوَدَّعَ يَدَّعُ وَوَدَّعًا الشُّيُ: چھوڑنا..... مَالًا
 عِنْدَهُ: امانت رکھنا..... الشُّيُ: بھرنے (اس
 فعل کے مصدر اور ماضی قلیل الاستعمال
 ہیں) (..... وَوَدَّعًا) الْمُسَافِرُ النَّاسَ
 : مسافر کا لوگوں کو عیش و آرام میں
 چھوڑنا اور کہا جاتا ہے "وَوَدَّعُوهُ" جبکہ کسی
 کے لئے دُعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی
 تکالیف سفر کو دور کرے اور اس کو آرام
 نصیب کرے..... الشُّوْبُ بِالشُّوْبِ: محفوظ
 کرنا (..... وَوَدَّعَ يُوَدَّعُ وَوَدَّعَةً الرَّجُلُ:
 مطمئن ہونا۔ صفت وَوَدَّعُ وَوَدَّعُ
 وَوَدَّعَ الْمُسَافِرُ الْقَوْمَ: مسافر کا لوگوں کو عیش
 و آرام سے چھوڑنا..... الْقَوْمُ الْمُسَافِرُ:
 رخصت کرنے کے لئے جانا..... فَلَانًا
 : چھوڑنا..... الشُّبِّيُّ او الْكَلْبُ: گلے میں
 کوڑی ڈالنا..... الشُّوْبُ فِي صَوَانٍ وَنَحْوِهِ
 : کپڑے کو گھڑی وغیرہ میں محفوظ کرنا.....
 فَوَسَّنَهُ: گھوڑے کو خوشحال رکھنا۔
 وَوَدَّعَهُ مُوَادَّعَةً وَوَدَّعًا: صلح کرنا۔ اسم

الْوَدَّاعُ:
 اُوْدَّعَهُ الشُّيُ: کسی کے پاس امانت رکھنا۔
 السُّوْبُ: راز ظاہر کرنا اور دوسرے سے
 چھپانے کو کہنا۔ اُوْدَّعَ كِتَابَهُ كَذَا: خط میں
 لکھنا..... الْكَلَامُ مَعْنَى حَسَنًا: لطیف معنی
 کی تضمین کرنا اور کہا جاتا ہے اُوْدَّعَهُ مَالًا
 : یعنی میں نے اپنے پاس امانت رکھنے کے
 لئے اس سے مال لیا۔
 تَوَدَّعَ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو رخصت کرنا
 الشُّوْبُ: کپڑے کو محفوظ کرنا..... فَلَانًا
 : اپنی ضرورت میں مشغول کرنا۔
 تَوَادَّعَ الْقَوْمُ: باہم صلح کرنا۔ ایک دوسرے
 کو رخصت کرنا۔
 اِتَّوَدَّعَ: آرام کرنا۔ تن آسانی اختیار کرنا۔
 قرار پکڑنا۔
 اِسْتَوَدَّعَ فَلَانًا مَالًا: کسی کو امانت رکھنے کے
 لئے مال دینا۔
 الْوَدَّعُ: مص۔ قبر۔ تیر اندازی کا ثنا۔ ج.
 وَوَدَّعُ (..... وَالسُّوْدَّعُ) کوڑی یا گھونگا۔
 واحد وَوَدَّعَةٌ وَوَدَّعَةٌ: ج. وَوَدَّعَاتُ.
 الْاُوْدَّعُ: جنگلی چوہا۔
 الْوَدَّاعُ: رخصت۔
 الْوَدَّاعَةُ وَوَدَّعُ: کا مصدر۔ سکون و وقار۔
 السُّدَّعَةُ وَالسُّدَّعَةُ وَالسُّدَّعَةُ وَالسُّدَّاعَةُ
 : سکون۔ راحت۔ فراخی زندگانی۔
 السُّوْدَّيْعُ ج. وَوَدَّعَاءُ: چپ چاپ۔ ٹھہرنے
 والا ج. وَوَدَّاعُ: عہد۔ مقبرہ۔
 السُّوْدَّيْعَةُ وَوَدَّيْعُ: کاموث۔ امانت۔ ج.
 وَوَدَّاعُ.
 الْمُسْتَوْدَعُ: حفاظت کی جگہ۔ رحم مادر۔
 الْمِيْدَعُ ج. مَوَادَّعُ وَالْمِيْدَعَةُ وَالْمِيْدَاعَةُ
 : پرانا استعمالی کپڑا۔ کپڑے وغیرہ محفوظ
 کرنے کی چیز۔ كَلَامٌ مِيْدَعُ: غم انگیز
 گفتگو۔ الْمِيْدَاعَةُ: آرام طلب مرد۔
 الْمُوْدَّعُ: مفتح..... مِنَ الْخَيْلِ: پُرسکون
 آرام پہنچایا ہوا گھوڑا۔
 الْمُوْدَّوْعُ: سکون و وقار۔

الْوَذَّةُ: مِصْبَحٌ - نَامِنَابٌ وَكَرْمٌ وَبَاتٌ -
 الْوَذَاةُ: عَيْبٌ - عِلْتٌ -
 وَذَخٌ يَذُخُ وَذَخًا: تَبَيَّرَ جَلَانًا -
 وَذَحَتْ فَوْذَحَ وَتَبَيَّحَ وَذَخَا الشَّاةُ: أَوْنَ
 فِيهَا مِثْلُهَا لَمَّا هَوِيَ وَالِي هَوَانًا..... الرَّجُلُ: مَرَدٌ
 كِي رَانُونَ كِي اِنْدَرَحَصَ فِيهَا هَوَانًا -
 السَّوْذَحُ: بَهِيضٌ كَمَرِي كِي اَوْنَ فِيهَا لَمَّا هَوِيَ
 مِثْلُهَا اَوْرِي شَابٌ وَاحِدٌ وَذَخَةٌ وَذَخٌ -
 الْاَوْذَحُ: كَبِيْرٌ لَيْسَ -
 وَذَرَةٌ يَذِرُهُ وَذَرًا: كَانَا - وَذَرَ الْجُرْحُ: زَرْعٌ
 كُوْجِرَانًا..... الشَّيْءُ: جَبُوْرَانًا - اسْ اَخْرَجَ مَعْنَى
 فِيهَا مَضَارِعَ اَوْرَامِرَ كِي اَعْلَاهُ كُوْنِي دَوْرَا
 صِيْنَةً مَسْتَمَلٌ نَيْسَ - تَمَّ كَبُوْغِي ذَرَةً مَعْنَى ذَعْفَةٌ
 وَاتْرَكَهُ وَبَذَرَهُ مَعْنَى يَذْعُهُ وَيَتْرَكَهُ اَوْرَامِرَ
 كِي لَمَّا مَضَى مَصْدَرًا اَوْرَامِرَ فَاعِلٌ تَرَكَ
 وَالصَّرَكُ وَالصَّرَاكُ: يُوْلَا جَانَةً كَارًا.....
 وَوَذَرَ تَسْوِيْرًا السَّوْذَرَةَ: كُوْشَتُ كِي
 جَبُوْنِي جَبُوْنِي كَلَرَا كَانَا -
 السَّوْذَرَةُ مِنَ اللَّحْمِ: جَبُوْنَا كَلَرَا جَوْرًا وَوَذَرَ
 وَوَذَرَ الْوَذَرَانُ: دُوْهَوْنٌ -
 السَّوْذَرَةُ: بَهِيْضٌ كُوْشَتُ وَالاَبَاوُ: بَدُوْدَارٌ
 عَمُوْرَتٌ اَوْرِي بَقُوْلٌ بَعْضُ مَوْنِي هَوْنَتُ وَالِي
 عَمُوْرَتٌ -
 السَّوْذَرَةُ: دَرَزِي كِي كِيْرُوْنُ كَا كَا
 جَبَاهَتٌ -
 وَذَخٌ يَذُخُ وَذَخًا الْمَاءُ: پَانِي بَهَانَا -
 السَّوْذَاةُ: قَا - چَشْمَه - سَكَاخُ پَرِبِنِي دَا
 پَانِي -
 وَذَفٌ يَذِفُ وَذَفًا الشَّخْمُ وَغَيْرُهُ: چَرْبِي
 بَهَانَا..... وَذَفَا وَوَذَفَانَا وَوَذَفٌ
 وَتَوَذَفٌ: اَكْرَتِي هُوْنِي نَازِي چِلَانَا -
 تَوَذَلُ النَّوْمُ مِنَ الْجَزَارِ: كُوْشَتُ كَا كَلَرَا
 لِيْنَا -
 اِمْرَاةٌ وَذَلَّةٌ وَذَلَّةٌ: چِسْتٌ وَچَالَاكٌ اَوْرَامِرَ
 قَدُوَالِي عَمُوْرَتٌ -
 الْوَذَالَةُ: كُوْشَتُ كَا كَلَرَا جَسُ كُوْقَصَالِي تَقْسِيْمٌ
 پَهْلِي جَدَا كَرُوْدِي -

الْوَذِيْلَةُ: مِصْبَحٌ كِي هَوَا چَا مَرِي كَا كَلَرَا - آخِيْنِيْجُ
 وَوَذِيْلٌ وَوَذَائِلُ: الْوَذِيْلَةُ: كُوْبَانٌ يَأْذُمُ كِي
 كُوْشَتُ كَا كَلَرَا..... مِنَ النِّسَاءِ: اِبْجَهْتُ قَدُوَالِي
 عَمُوْرَتٌ -
 وَوَذِمْتُ تَوَذِمُ وَوَذِمًا الدَّلْوُ: ذُوْلُ كَا تَسْمُو
 لُوْشًا - صِفْتُ وَوَذِمْتُ..... السَّوْذِمُ نَفْسُهُ: خَمُوْدُ
 تَسْمُو لُوْشًا -
 وَوَذِمَةُ: كَانَا - وَوَذِمُ الْكَلْبُ: كَتِي كِي گَلِي
 فِيهَا پِيْدُوْنَا..... عَلِي الْخَمْسِيْنَ: زِيَادَةُ
 هَوَانًا..... السِّمِيْنُ: وَاجِبٌ كَرْنَا الدَّلْوُ: ذُوْلُ كَا
 تَسْمُوْنَا اَوْذِمُ الدَّلْوُ: ذُوْلُ فِيهَا تَسْمُوْنَا بَا نَدْحَانَا
 يَا تَسْمُوْنَا..... السَّنْدَرُ: نَذَرُ وَاجِبٌ كَرْنَا.....
 عَلِي الْخَمْسِيْنَ: زِيَادَةُ هَوَانًا -
 السَّوْذِمُ: مِصْبَحٌ - زِيَادَتِي مَعْنَى وَوُزُوْمٌ
 وَوُذَامٌ وَوُذِمٌ وَوُجٌ اَوْذِمُ. السَّوْذِمُ: ذُوْلُ كَا
 تَسْمُوْنَا - وَاحِدٌ وَوَذِمَةُ.
 اِسْمَرَاةٌ وَوَذِمَاءُ: بَا نَدْحَانَا عَمُوْرَتُ اَوْرَامِرَ فَرَسٌ
 وَوَذِمَاءُ -
 السَّوْذِمَةُ: اَوْبَهُوْدَا نَتِيْنُ - وَوَذَامٌ -
 السَّوْذِيْمَةُ: مَالٌ جَمُوْنِي سَمِيْلٌ اَللّهُ دِيَا جَانَةً -
 وَوَذِيْمَةُ الْكَلْبُ: كَتِي كِي گَلِي كَا پِيْرِي
 وَوَذَامٌ -
 تَوَذِنُهُ تَوَذِنًا: جَبِيْرَانًا - تَوَذِنُ الشَّيْءُ فَلَائِنَا
 عَمْدُهُ مَعْلُوْمٌ هَوَانًا - پَسْنَدَا نَا -
 وَوَذُوْدُ الرَّجُلِ: جَبِيْرَانًا - دُوْرَانَا - كَمَا جَانَا بِي
 "فَرَّ الدَّنْبُ يُوْذُوْدًا" جَبِيْرِيَا دُوْرَانَا هَوَا
 كَلَرَا -
 رَجُلٌ وَوَذُوْدًا: تَبِيْرُ قَامِرُوْدُ -
 وَوَذِي يَذِي وَوَذِيًا وَوَذِيَةً: چِهْرُهُ پَرَا شَلَا لَكَ نَا -
 السَّوْذَاةُ: رِيْحٌ وَوَذِي كَا سَبَبٌ -
 السَّوْذِيْبَةُ: اِسْمُ مَرْمَرَةٍ - دَرُوْدِي - عَيْبٌ - تَهْوُوْرَا
 پَانِي -
 السَّوْذَةُ: زَمِيْنٌ كَا كَلَرَا (.....) وَالسَّوْذَةُ: مَرِيْنٌ -
 وَوَذِيْرَا اَوْرَامِرَ اَوْرَامِرَ الشَّيْءُ: دُوْرِي كَرْنَا..... مِنَ
 السَّطْعَامِ: عَطْمٌ مِيرِي هَوَانًا اَوْرَامِرَ جَانَا بِي
 "مَأْوَرْنَتْ وَمَا اَوْرْنَتْ وَمَا اَوْرْنَتْ بِه" فِيهَا
 نِيْنَا اسْ كُوْنِيْسَ جَانَا -

تَوْرَاثٌ عَلَيْهِ الْاَزْحُ: كَرْمٌ هَوَا كَرْنَا -
 الْوَرَاءُ: پُوْتَانَا - وَرَاءُ الْاِنْسَانِ: بِيْجِي - اَوْرَامِرَ
 آگِي كِي مَعْنَى فِيهَا آتَا بِي - نَذَرُ وَوَمُوْتٌ
 هُوَانَا اسْ كِي تَصْمِيْرُ وَرِيْبَةً وَوَرِيْبَةً: هُوَانَا
 جَانَا بِي "هُوَ وَرِيْبَةُ الْحَاظِ اَوْ ذَرِيْبَةُ" وَهُ
 دُوْرَا كِي بِيْجِي هُوَانَا - يِي كَلَرَا نَفْرُ مَكَانٌ هُوَانَا
 اَوْرَامِرَ كِي مَعْنَى فِيهَا بِيْجِي آتَا بِي جِيْسِي مَسْنِي
 اِنْفَسِي وَرَاءُ ذَلِكُ: جَمُوْحُ اسْ كِي سَوَا
 طَلَبُ كَرِي -
 وَوَرَبٌ يُوْرَبُ وَوَرَبًا الْعُرْفِيُّ: خَرَابٌ هَوَانَا -
 صِفْتُ وَوَرَبٌ -
 وَوَرَبٌ عَنِ الشَّيْءِ: مَعَارِضَاتٌ سِي تُوْرِي
 كَرْنَا -
 وَوَرَبٌ وَوَرَبًا: هُوَانَا وَوَرَبَانَةُ الرَّجُلِ: فَرِيْبٌ
 دِيْنَا - مَكَارِي كَرْنَا -
 السَّوْرَبُ: جَنْجَلِي جَانُوْرُوْنُ كَا بَهْتٌ - چُوْبِي يَا
 بِيْجُو كِي سُوْرَاخُ كَا دِهَانًا - دُو پَسِيْلُوْنُ كَا
 دَرْمِيَانِي حَصَه - عَضُو - اَكُوْطَا اَوْرَامِرَ
 شَهَادَتِي كَا دَرْمِيَانِي حَصَه كُوْنِي كِي حَالَتِي
 فِيهَا - چُوْرَتِي - وَوَرَبٌ: اَوْرَابٌ -
 السَّوْرَبُ: اِبُ: اِيْكٌ فِيهَا نَفْتٌ هُوَانَا بِي مَعْنَى
 عَضُو -
 السَّوْرَبَةُ: چُوْرَتِي - كُوْكُه كَا كَلَرَا هُوَانَا -
 السَّوْرَابُ: جَمَاكُوْ - بِيْجِي كِي
 وَوَرَبٌ يُوْرَبُ وَوَرَبًا وَوَرَبًا وَوَرَبًا وَوَرَبًا وَوَرَبًا
 وَوَرَبًا: اَوْرَابٌ - فَلَائِنَا: وَوَرَبٌ هُوَانَا - كَمَا جَانَا بِي
 "وَرَبٌ السَّمَالُ وَالْمَجْدَةُ عَنِ فَلَانٍ" فَلَانُ
 كِي مَالٌ وَوَرَبٌ وَوَرَبٌ هُوَانَا -
 وَوَرَبٌ الرَّجُلُ مَالًا: مِيرَاثُ قَرَارِيْنَا..... هُوَانَا
 مِيْنُ فَلَانٍ: وَوَرَبٌ هُوَانَا..... الرَّجُلُ فَلَانًا: اِيْنَا
 وَوَرَبٌ هُوَانَا..... السَّوْرَابُ: آگِي كُوْبِيْرُ كَتِي
 لَمَّا حَرَكْتِي دِيْنَا -
 اَوْرَبُهُ اِسْرَانًا: وَوَرَبٌ هُوَانَا..... فَلَائِنَا مَالًا:
 مِيرَاثُ قَرَارِيْنَا..... هُوَانَا السَّوْرَابُ: جَمَلَانِي
 بِيَارِي كَرْنَا..... هُوَانَا الشَّيْءُ: بِيْجِي لَانَا - اَوْرَبُهُ
 الْحَزْنُ هَمًّا: بَاعَثُ وَوَسَبُ هُوَانَا - اَوْرَبُ
 الْمَطَرُ النَّبَاتُ بَعْثًا: بَاعَثُ وَوَسَبُ هُوَانَا.....

<p>وَلَذَّةُ تَهْوَاوَرْتِ بَنَاتَا۔ تَوَاوَرْتِ السُّوْمُ: ایک دوسرے کا وارث ہونا۔ تَوَاوَرْتُو الْمَالِ او الْمَخِيذَةُ: زمانہ قدیم سے ایک دوسرے کا وارث ہونا۔ کہا جاتا ہے "تَوَاوَرْتُوا الْمَجْدَ كَسَابِرٍ عَنِ كَابِرٍ" انہوں نے اپنے باپ دادا سے بزرگی پائی "وَالْمَجِيذُ مُتَوَاوَرْتٌ بَيْنَهُمْ" بزرگی ان کے درمیان میراث میں ہے "وَهُمْ فِي اِزْتِ مَجِيذٍ" ان لوگوں کے لئے بزرگی کی میراث ہے "وَتَوَاوَرْتِيسِي الْحَوَادِثُ" میرے اوپر حوادث پے بہ پے واقع ہوئے۔</p>	<p>مجاز ہیں۔ وَرْدَةُ الرَّجُلِ: بخار زدہ ہونا۔ وُرْدٌ عَلَيْهِ بِفُلَانٍ: لا یا جانا۔ وَرْدَةٌ يُوْرِدُ وَوَرْدَةٌ اِيْرَادُ الْفَرَسِ: گھوڑے کا سرخی زردی مائل ہونا۔ وَرْدَةُ الشَّجَرِ: درخت میں پھول نکلنا۔ وَرْدَتِ السَّمْرَةُ: رخسارے سرخ کرنا۔ وُرْدٌ الثُّوْبِ: کپڑے کو گلابی رنگنا۔ وَارْدَةٌ مَوَارِدَةُ الرَّجُلِ: کسی کے پاس آنا۔ الشَّاعِرُ الشَّاعِرُ: دوسرے شاعر کے شعر کے مانند بغیر سے ہوئے شعر کہا۔ اَوْرَدَةُ اِيْرَادًا: گھاٹ پر لانا۔ پھر مطلقاً حاضر کرنے کے معنی میں مستعمل ہونے لگا..... السَّمَاءُ: پانی پر لانا۔ اَوْرَدَ الْكَلَامَ: تصریح کرنا..... الشَّيْءُ: ذکر کرنا..... الصَّخْرُ: بیان کرنا۔</p>	<p>وَرْدَةُ: گلابی رنگ۔ السُّوْرِدِيُّ: گلابی رنگ والی چیز۔ مَوْرَثٌ وَوَرْدِيَّةٌ: تیز رفتار اونٹ۔ السُّوْرِدِيُّ: گزرنے کی رگ اور اسی کو خبیل السُّوْرِدِيُّ: بھی کہتے ہیں۔ "وَرْدِيْن" اسی کے مترادف ہے۔ اور یہ بھی دہوا کرتی ہیں۔ جِ اَوْرَدْنَا وَوُرْدٌ وَوُرُوْدٌ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ مُتَّفَخٌ السُّوْرِدِيُّ" یعنی غضبناک بدخلق مرد۔ السُّوْرِدِيَّةُ: گلاب کے پھولوں کی ایک قسم جو کہ زیادہ تر جنگلات میں ہوتی ہے اور کچھ باغوں میں لگاتے ہیں۔</p>
<p>السُّوْرِدِيُّ: فاج و اِرْفُون و وُرَادٌ وَوُرُوْدٌ وَوَارِدَةٌ: الوارِد: دلیر۔ بہادر۔ راستہ۔ لمبے لنگے ہوئے بال وغیرہ۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ وَاْرِدٌ الْاَزْبِيَّةُ" یعنی لمبی ناک والا اور ہر طویل کو "وَارِدٌ" کہتے ہیں۔ السُّوْرِدِيُّ: واردہ۔ واردہ کا مَوْرَثُ۔ راستہ۔ پانی پر جانے والی قوم۔ السُّوْرِدِيَّةُ: دو قلعوں والے پودے اور مختلف چھوڑے درخت جیسے گلاب سیب زہر اور آلو باجرہ اور بھی۔</p>	<p>السَّمَاءُ: پانی پر لانا۔ اَوْرَدَ الْكَلَامَ: تصریح کرنا..... الشَّيْءُ: ذکر کرنا..... الصَّخْرُ: بیان کرنا۔ تَوْرَدٌ: گھاٹ پر آنے کو کہنا..... السَّمَاءُ: پانی پر آنا..... السُّوْرِدِيُّ: آہستہ آہستہ داخل ہونا..... السُّوْرِدِيُّ: رخسارہ کا سرخ ہونا۔ السُّوْرِدِيُّ: گلابوں ہونا۔ تَوَارِدَةُ الْقَوْمِ اِلَى الْمَكَانِ: یکے بعد دیگرے آنا۔ تَوَارَدُوا السَّمَاءَ: پانی پر اکٹھا پہنچنا۔ تَوَارِدَةُ الشَّاعِرَانِ: بغیر سے ہوئے لفظ اور معنی میں متفق ہونا۔ اِسْتَوْرَدَ السَّمَاءَ: پانی پر پہنچنا..... لے جانا..... السُّوْرِدِيُّ: جتلانے گرا ہی ہونا..... فَلَانًا السُّوْرِدِيُّ: جتلانے گرا ہی کرنا۔</p>	<p>السُّوْرِدِيُّ: تازہ چیز۔ اِلَاوْرَثِ وَالسُّوْرَثِ وَالسُّوْرَاةُ وَالسُّوْرَاثِ: مصادیر۔ میت کا ترکہ۔ السُّوْرَاثِ: فاج و وُرْدَةٌ وَوُرَاثٌ۔ السُّوْرَاثِ: میت کا ترکہ۔ جِ مَوَارِثٌ۔ السُّوْرُوْرَثِ: مفتح۔ ترکہ چھوڑنے والا۔ میراث۔ وَرِيْخٌ يُوْرِيْخُ وَوَرِيْخَا وَوَرِيْخُ الْعَجِيْنِ: گندھے ہوئے آٹے کا ڈھیلا ہونا۔ وَرِيْخُ الْبِكْتَابِ: ایک لفت ہے اَرِيْخُ میں۔ اَوْرِيْخُ الْعَجِيْنِ: گندھے ہوئے آٹے کو نرم کرنا۔ تَوْرِيْخَتْ تَوْرِيْخًا وَاسْتَوْرِيْخَتْ اِسْتِيْرِيْخًا الْاَرْضُ: تر ہونا۔ السُّوْرِيْخُ: دیکھئے مادہ اَرِيْخُ۔ مَكَانٌ وَرِيْخٌ: گنجان گھاس والی جگہ۔ السُّوْرِيْخَةُ: نرم زمین۔ ڈھیلا گندھا ہوا آٹا جِ وَوَرِيْخُ۔</p>
<p>السُّوْرِدِيُّ: پانی کی طرف کا راستہ۔ ہلاکت۔ السُّوْرِدِيُّ: مفتح۔ کہا جاتا ہے "رَجْعٌ مَوْرِدٌ الْقَدَالُ" وہ اس حال میں واپس ہوا کہ اس کی گدی طمانچوں سے سرخ تھی۔ وَرْدِيْسٌ يُوْرِدُ وَوَرْدِيْسٌ السُّوْرِدِيُّ: چٹان کا کائی سے سبز اور پھسلن والا ہونا۔ وَرْدِيْسٌ (ض) وَوَرْدِيْسٌ النَّبْتُ: نباتات کا سبز ہونا۔ وَرْدِيْسٌ الثُّوْبِ: کپڑے کو ورس سے رنگنا۔ اَوْرِدِيْسٌ الشَّجَرِ: پھول والا ہونا..... السُّوْرِدِيُّ: ورس والی ہونا۔ السُّوْرِدِيُّ: ایک قسم کی گھاس تل کے مانند ہے جس سے رنگائی کا کام لیتے ہیں۔</p>	<p>اِسْتَوْرَدَ السَّمَاءَ: پانی پر پہنچنا..... لے جانا..... السُّوْرِدِيُّ: جتلانے گرا ہی ہونا..... فَلَانًا السُّوْرِدِيُّ: جتلانے گرا ہی کرنا۔ السُّوْرِدِيُّ: ج و وُرْدٌ وَوَرَادُوْ اَوْرَادًا: زعفران۔ شیر۔ بہادر۔ دلیر..... السُّوْرِدِيُّ: سرخی زردی مائل گھوڑا..... جِ وُرُوْدٌ: درخت کی کٹی۔ گلاب۔ واحد وُرْدَةٌ۔ وُرْدٌ دَفْرَاءُ: ایک قسم کا پھول۔ السُّوْرِدِيُّ: بخار۔ پانی پر پہنچنا۔ وَرْدِيْسٌ: پانی کا حصہ۔ وہ پانی جس پر لوگ پہنچیں۔ پانی پر پہنچنے والے لوگ یا اونٹ۔ لشکر۔ پردوں کی ڈار۔ بِنْتُ وَوَرْدَانٍ: گھبریلہ۔ جِ بِنَاتٌ وَوَرْدَانٌ۔</p>	<p>وَرْدِيْسٌ يُوْرِدُ وَوَرْدِيْسٌ السُّوْرِدِيُّ: چٹان کا کائی سے سبز اور پھسلن والا ہونا۔ وَرْدِيْسٌ (ض) وَوَرْدِيْسٌ النَّبْتُ: نباتات کا سبز ہونا۔ وَرْدِيْسٌ الثُّوْبِ: کپڑے کو ورس سے رنگنا۔ اَوْرِدِيْسٌ الشَّجَرِ: پھول والا ہونا..... السُّوْرِدِيُّ: ورس والی ہونا۔ السُّوْرِدِيُّ: ایک قسم کی گھاس تل کے مانند ہے جس سے رنگائی کا کام لیتے ہیں۔</p>

الظِّل: سایہ کا دراز و کشادہ ہونا.....
النَّبَات: نباتات کا سرسبز ہونا اور

لہلہانا۔ صفت و ارق۔

وَرَقُ الْأَرْضِ: زمین کو تقسیم کرنا..... النَّبَاتُ

النَّاصِرُ: تازہ نباتات کو چوسنا.....

وَأَوْزَقُ الظِّلِّ: سایہ کا دراز و کشادہ ہونا۔

الوَزْفُ: مصل۔ جگر کے اطراف کا پتلا حصہ۔

وَرَقُ الشَّجَرِ وَوَرَقُهُ: درخت کی خوشنمائی۔

الرِّقَّةُ: مصل۔ سرسبزہ پودہ۔

الرِّقَّةُ: خشک گھاس۔

وَرَقُ يَرْقُ وَرَقًا الشَّجَرُ: پتے دار ہونا۔

الشَّجَرُ: درخت سے پتے لینا۔

وَرَقُ الشَّجَرِ: پتے دار ہونا..... الشَّجَرُ:

درخت سے پتے لینا۔

أَوْزَقُ الشَّجَرِ: پتے دار ہونا..... الرَّجُلُ

: بہت مال و دولت والا ہونا..... الطَّالِبُ

: محروم رہنا..... الصَّالِبُ: شکار نہ کرنا.....

الغَازِي: بغیر مال کے لوٹنا۔ مال قیمت

حاصل کرنا۔

تَوَرَّقَ الطَّيْبُ: ہرن کا پتے کھانا۔

إِبْرَاقٌ وَأَوْزَاقٌ يَوْزَاقٌ إِبْرَاقًا الْعِنْبُ

: انگوٹھا کا رنگ پکڑنا۔ صفت مؤزَاقٌ۔

السُّوْرُقُ وَالوَرُقُ وَالوَرُقُ وَالوَرِقُ: چاندی

کا سکہ۔ جِ أَوْزَاقٌ وَوَرِاقٌ۔

السُّوْرُقُ: چاندی کا سکہ۔ جِ أَوْزَاقٌ. وَرَقُ

الشَّجَرِ: درخت کا پتہ۔ وَرَقُ الْكِبَابِ

: کتاب کا ورق۔ واحد الوَرَقَةُ جِ وَرَقَاتٌ

وَأَوْزَاقٌ. السُّوْرُقُ: زمین پر پڑا ہوا خون

وغیرہ کا گول ٹکڑا۔ ہر زندہ حیوان۔ مال و

روپیہ پیسہ یا مویشی وَرَقُ الشَّيْبَابِ: جوانی

کی تروتازگی اور ورقِ جمال و خوبی اور حسن

بیت کے لئے بطور استعارہ کے بولا جاتا

ہے۔

الرِّقَّةُ: چاندی کا سکہ جِ رِقْسُونُ نصی نامی

گھاس کی ابتدائی روئیدگی جبکہ سبز ہو

جائے۔

ہے "اسْتَوْرَظَ فِي حَيْئَتِي" وہ میرے جال

میں پھنس گیا۔

السُّوْرَطَةُ: کچڑ۔ سخت کچڑ۔ جس میں بکری

پھنس جائے اور چھوٹ نہ سکے۔ پست زمین

جس میں کوئی راستہ نہ ہو۔ کنواں۔ جنگ

گڑھا۔ ہلاکت۔ ہر مشکل کام جس سے

رہائی دشوار ہو۔ درج وَرَطَاتٌ

وَوَرِاطٌ۔

الوِرَاطُ: دھوکا فریب۔

وَرِيعٌ يَسْرِعُ وَيَسْوَعُ وَوَرِعٌ يَسْرِعُ وَوَرِعٌ

يَسْوَعُ وَوَرِعًا وَوَرِعًا وَوَرُوعًا وَوَرُوعًا

: پرہیزگار ہونا۔ گناہوں سے دور رہنا۔

شبهات اور معاصی سے بچنا۔ صفت وَرِيعٌ۔

وَرِيعٌ يَسْرِعُ وَرَاعَةً عَنْ كَذَا: رکتا۔ وَرِعٌ

يَسْرِعُ وَوَرِعٌ يَسْوَعُ وَوَرِعًا وَوَرِعًا

وَوَرِعًا وَوَرُوعًا وَوَرُوعًا وَوَرُوعًا: کمزور

ہونا۔ بزدل ہونا۔ حقیر ہونا۔

وَرِيعٌ يَسْوَعُ وَرَاعَةً وَوَرُوعًا وَوَرُوعًا

: معمولی مال والا ہونا۔

وَرِعٌ الْفَرَسُ: گھوڑے کو گام سے روکنا

..... إِبْرَاقٌ غِي الْمَاءِ: اونٹوں کو پانی پر سے

واپس لانا..... وَأَوْزَعٌ فَلَتَاعٌ عَنْ كَذَا

: روکنا..... بَيْنَهُمَا: روک بن جانا۔ کہا جاتا

ہے "مَا وَرَعَ أَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا" وہ ایسا

اور ایسا کرنے سے نہیں رکا۔

وَرَاعَةٌ مُوَارَعَةٌ: گفتگو کرنا۔ مشورہ کرنا۔

تَوَرَّعَ مِنْ أَوْعَنْ كَذَا: پرہیز کرنا۔

السُّوْرِعُ: مصل۔ پرہیزگاری۔ زَجَلٌ وَوَرِعٌ:

بزدل۔ کمزور۔ نکما۔ جِ أَوْزَاعٌ (.....)

وَالرِّعَةُ وَالرِّعَةُ: گناہ اور شبہات سے

بچنا۔

السَّرِيعَةُ: حالت۔ تم کہتے ہو "فَلَانٌ حَسَنُ

الرِّعَةِ أَوْ سَبِي الرِّعَةِ" فلاں کی حالت اچھی

یا بری ہے۔

الوَرِيعُ: پرہیزگار۔

الوَرِيعُ: روکنے والا۔

وَرَقُ يَرْقُ وَرَقًا وَوَرِيفًا وَوَرُوفًا وَرِيفَةً

وَرِيفَةً

الوَارِسُ وَالوَرِيسُ: سرخ۔ وَارِسُ الْحُمْرَةِ

: بہت سرخ۔

الوَرِيسِيُّ وَالوَرِيسُ وَالْمُوَرِّسُ: درس سے

رتگا ہوا۔

وَرَشٌ يَرِشُ وَرَشًا: لالچ کرنا اور ذہنی کاموں

کے پیچھے پڑنا..... شَيْئًا مِنَ الطَّعَامِ: حرم سے

کھانا..... هُ فُلَانٌ: بھڑکانا..... عَلَي الْقَوْمِ

: بغیر بلائے ہوئے کھانے کے وقت پہنچ جانا۔ کہا

جاتا ہے "لَا تَرَشْ عَلَي" میری گفتگو قطع مت

کرد۔

وَرِشٌ يَمُورِشُ وَرَشًا: چست و چالاک اور

خوش ہونا۔ صفت وَرِشٌ مُورِشٌ وَرِشَةٌ: جِ

وَرِشَاتٌ۔

وَرَشٌ تَوَرِيشًا بَيْنَ الْقَوْمِ: بھڑکانا۔

اَکْسَانًا۔ اور وَاوُ كُو مَهْرَه سے بدل کر آرش

تَوَرِيشًا بھی کہا جاتا ہے۔

الوَرِشُ: مصل۔ ایک قسم کا کھانا جو دودھ سے

تیار کیا جاتا ہے۔

الوَرِشُ: مصل۔ پیٹ کا درد۔

السُّوَرِشَانُ: قمری۔ مَوْنُثٌ وَرَشَانَةٌ جِ

وَرِشَانٌ وَوَرِيشِيْنٌ۔

وَرَصَتْ تَرَصُ وَرَصًا وَوَرَصَتْ

وَأَوْزَصَتْ الدَّجَاجَةُ: یکبارگی انڈے

دینا۔

الوَرِصُ: پاخانہ۔ جِ أَوْزَاصٌ۔

وَرَصٌ: چراگاہ تلاش کرنا۔

وَرَطَةٌ وَأَوْرَطَةٌ: ہلاکت میں ڈالنا۔ أَوْرَطَ

الشَّيْءُ: چھپانا۔ وَرَطٌ إِبِلٌ أُخْرِي: دوسرے اونٹوں میں اپنے اونٹوں کو رلا ملا

دینا۔

وَأَزَلَهُ وَرَاطًا وَمُوَارَطَةٌ: فریب دینا۔

تَوَرَّطَ الْمَاشِيَةَ: کچڑ کی جگہ میں پھنسنا۔ یا

ایسی جگہ میں پھنسنا جہاں سے رہائی نہ ہو

سکے۔ تَوَرَّطَ الرَّجُلُ: کچڑ میں پھنسنا یا

مشکل میں پھنسنا۔ ہلاک ہونا۔

إِسْتَوْرَطَ فِي أَمْرٍ: ایسی مشکل میں پھنسنا جس

سے رہائی نہ ہو سکے۔ ہلاک ہونا۔ کہا جاتا

زین جو گرمی کے زمانے میں بارش ہونے کی وجہ سے سبز و زار ہو جائے۔ الْمُورِقَةُ فِي الْقَوَسِ: کمان کا عیب۔ الْمُورِقَةُ: نیا لارنگ۔ الْمُورِقُ: گھاس کی وجہ سے زمین کی سبز گوئی۔ الْمُورِقُ: پتے نکلنے کا زمانہ۔ الْمُورِقَةُ: کاغذ سازی کا پیشہ۔ الْمُورِقُ: روپے پیسے والا۔ کاغذ کا بیچنے والا۔ کاغذ بنانے والا۔ کاغذ۔ الْمُورِقُ وَالْمُورِقُ وَالْمُورِقُ مِنَ الشَّجَرِ: پتوں والا درخت۔ بہت پتوں والا۔ خوبصورت پتوں والا۔ شجرۃ و اوراق۔ وورِقَةٌ وورِقَةٌ: سبز اور خوبصورت بہت پتوں والا درخت۔ الْمُورِقُ: خاکستری رنگ والا۔ راکھ۔ عمام۔ أُورِقُ: بے بارش کا سال۔ زَمَانُ أُورِقٍ: قحط کا زمانہ۔ مَوْتٌ وَرِقَاءٌ: جِ وَرِقٌ۔ السُّورِقَاءُ: أُورِقُ: کا مَوْت۔ مادہ بھیڑیا۔ ایک درخت کا نام جس کے پتے گول، چوڑے اور نازک ہوتے ہیں۔ کبوتر و قاختہ یا وہ جس کا رنگ سبزی مائل ہو۔ جِ وَرِقٍ۔ وورِقَانِ کہا جاتا ہے السَّجَارَةُ الْمُورِقَةُ لِلسَّمَالِ: یعنی تجارت مال کے بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ الْمُورِقُ: قاف۔ کاغذی۔ کاغذ کا بنانے والا۔ وَرِكٌ يَرْكُ وَرْتًا: سرین پر سہارا لینا۔ السُّرَجَلُ: سرین پر مارنا۔ الشُّيْ: سرین کے مقابل کرنا (وُرُوْجًا)۔ السُّرَاكِبُ: اترنے یا آرام لینے کیلئے سرین کو موڑنا۔ بِالْمَمَّكَانِ: اقامت کرنا۔ عَلِي الْأَمْرِ: قادر ہونا۔ وَرِكٌ يَرْكُ وَرُوْجًا: سرین کو زمین پر رکھ کر لینا۔ وَرِكٌ تَوْرِكٌ وَرْتًا: الودِكُ: سرین کا بڑا ہونا۔ وَرِكٌ السُّجَلُ أَوْ السُّجَلُ: سرین کے	مقابل کرنا۔ عَلِي الْأَمْرِ: قادر ہونا۔ الشُّيْ: واجب کرنا۔ السُّرَاكِبُ: دوزانو بیٹھنے والے کی طرح ٹانگوں کو موڑنا اور دونوں سرین کو زمین میں رکھنا۔ السُّنْبُ عَلِيْهِ: گناہ کا الزام لگانا دینا۔ السُّجَلُ: قسم کھلانے والے کی نیت کے علاوہ نیت کرنا۔ وَرِكٌ مُوْرِكَةٌ السُّجَلُ: پہاڑ سے گزر جانا۔ تَوْرِكٌ: سرین پر سہارا لینا۔ الشُّيْ: سرین پر بیٹھنا۔ السُّرَاكِبُ: اترنے یا آرام لینے کے لئے ٹانگ کو موڑنا۔ غسب الْأَمْرِ: دیر کرنا۔ بِالْمَمَّكَانِ: اقامت کرنا۔ عَلِي الْأَمْرِ: قادر ہونا۔ لِّلرَّجُلِ: کسی کی ٹانگ کو باندھ دینا۔ کہا جاتا ہے تَوْرِكٌ لَّهُ فَصْرَعَهُ: اس نے اس کی ٹانگ کو باندھ دیا اور پچھاڑ دیا۔ تَوْرِكٌ: سرین پر ٹیک لگانا۔ السُّوْرِكُ وَالسُّوْرِكُ وَالسُّوْرِكُ: چوڑے سرین (مَوْت) جِ أُوْرَاكٍ: الودِكُ: کمان کا کنارہ یا تانت باندھنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے قَعْدَةُ الْمَلَاخِ عَلِي وَرِكِ السُّفِيْنَةِ: ملاح کشتی کے پچھلے حصہ پر بیٹھا۔ "وَهُمْ عَلِي وَرِكٌ وَاجِدٌ" وہ میرے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ السُّوْرِكِيُّ: خبر کی اصلیت۔ کہا جاتا ہے "إِنَّ عِنْدَهُ لَوْرِكِي الْخَيْرِ" اس کے نزدیک خبر کی اصلیت ہے۔ السُّوْرَاكُ وَالسُّوْرَاكُ جِ وَوْرِكٌ وَالنُّوْرِكُ وَالنُّوْرِكَةُ مِنَ الرَّجُلِ: کیا وہ حصہ جہاں سوار تھک کر ٹانگ پھیلا دے۔ الْأُوْرِكُ: بڑے سرین والا۔ مَوْتٌ وَرْتًا جِ وَرِكٌ: الودِكُ: سرین کا بڑا ہونا۔ فِي هَذَا الْأَمْرِ" وہ اس معاملہ میں بے گناہ	ہے۔ السُّوْرِكُ وَالسُّوْرِكَةُ: کیا وہ کاغذ ہے۔ السُّوْرِكَةُ: تکلیف کے مانند ایک چیز جس کو سوار اپنے سرین کے نیچے رکھتا ہے۔ السُّوْرِلُ: گواہ کی مانند ایک جانور ہے جو اس سے کچھ بڑا ہوتا ہے اور اس کی دم لمبی اور باریک ہوتی ہے۔ جِ وَرْلَانُ أُوْرَالِ أُوْرُلِ مَوْتٌ وَرْتَةٌ۔ وَرِمٌ يَسْرُمُ وَرْمًا وَتَوْرِمُ الْجِلْدُ: سوجنا۔ صفت وَارِمٌ..... أَنْفُ فَلَانٍ: غضبناک ہونا۔ النَّبْتُ: لمبا اور موٹا ہونا۔ وَرِمٌ الْجِلْدُ: سوجن پیدا کرنا۔ أَنْفُ فَلَانٍ: غضبناک کرنا۔ بَانْفِهِ: تکبر کرنا۔ أُوْرِمُ إِسْرَامًا: غضبناک کرنے والی باتیں سنانا۔ کہا جاتا ہے "فَعَلَّ بِهَ مَا أُوْرِمُهُ" یعنی اس نے اس کے ساتھ وہ فعل کیا جس نے اسے ٹھکن کر دیا اور غضبناک بنا دیا۔ الْوَرِمُ: موص۔ سوجن۔ جِ أُوْرَامٌ۔ الْأُوْرِمُ: لوگ یا بہت سے لوگ۔ کہا جاتا ہے "مَا أُوْرِي أُمَّ الْأُوْرِمِ هُوَ" میں نہیں جانتا وہ کون ہے۔ السُّوْرِمُ: ڈانڈھ نکلنے کی جگہ۔ السُّوْرِمُ: مفتح۔ بڑے ڈیل ڈول کا مرد۔ وَارْتَةٌ مُوْرَاتَةٌ: زور و زور ہونا۔ مقابل ہونا۔ تَوْرِنٌ: بہت تیل ملنا۔ لا ڈیپار سے پالنا۔ الْوَرِنُكُ: مچھل کی ایک قسم۔ وَرَةٌ يَسُوْرَةٌ وَرْتًا: بے وقوف ہونا۔ صفت أُوْرِهِ: مَوْتٌ وَرْتًا۔ وَرْتٌ الرِّبِيْعُ: ہوا کا تیز چلنا۔ وَرْتٌ تَوْرَةٌ وَرْتًا الْمَرْأَةُ: عورت میں بہت چربی ہونا۔ تَوْرَةٌ فَلَانٌ فِي غَسْبِلِ هَذَا الشُّيْ: ماہرنہ ہونا۔ السُّوْرَةُ مِنَ السُّحَابِ: بہت بارش والا بادل۔ الْوَارِهِ: کشادہ۔ فرار۔ وَرٌ السُّنْطَرُ: نظرتیز کرنا۔ فِي الْكَلَامِ:
--	--	--

<p>جلدی جلدی بولنا۔ السوزوار: ایک پرندہ جس کی ناک میں چھوٹی اور چونچ لمبی اور کالی ہوتی ہے اور اس کے سر کے بالائی حصہ پر سرخی اور گلے میں حلقہ ہوتا ہے جس کا رنگ زردی مائل اور سارا بدن سبز نیلگوں مائل اور اس کی دم میں دو لمبے پر ہوتے ہیں۔ الوزوری: کمرورنگہ والا۔ الموزور: ناگائے والا۔ وزی سیری وزیا السرجل: پھیپھڑے پر مارنا۔ القلیح جوفہ: خراب کرنا اور گلا دینا۔ اسم الوزی وزت وزیا وزیة الناز: آگ کا بھڑکانا۔ الاہل: اونٹ کا موٹا اور زیادہ چربی اور گوڈے والا ہونا۔ وزی ووزی بوی وزیا ووزیا ووزیة الزند: چقماق کا آگ نکالنا۔ صفت واد۔ وزی سیری وزیا السخ: گوڈے کا ٹھوس ہونا۔ وزی السرجل: پھیپھڑے میں بیٹ والا ہونا۔ صفت موزور و موزوری۔ وزی سورویة الشی: پوشیدہ کرنا۔ عن سندا: اصل بات چھپا کے دوسری بات ظاہر کرنا۔ الخیر و عن الخیر: پس پشت ڈالنا اور چھپانا۔ عن فلان بصرة: نگاہ بنالینا۔ وزی السار: آگ نکالنا۔ ووزی الزند: چقماق سے آگ نکالنا۔ واری مواراة الشی: چھپانا۔ توزی توزیا و تواری تواریا عنہ: چھپانا۔ استوزی الزند: آگ نکالنا۔ کہا جاتا ہے استوزیة زایة: میں نے اس کی رائے دریافت کی۔ السوزی: مہس۔ جوف بدن کی پیپ۔ پھیپھڑوں کا زخم۔ السوزی: اسم ہے وزی کا۔ مخلوق۔ اَبسو الوردی: زمانے کی کنیت۔ الوزاء: وزا کا مادہ دیکھئے۔ الزند السواری والوردی: آگ دینے والا۔</p>	<p>چقماق۔ السواری والوردی: موٹی چربی۔ الوردی: مہمان۔ پڑوسی۔ لحم وزی: موٹا گوشت۔ ریة السار ووزیتھا: آگ سلگانے کے لئے چھتھرا وغیرہ۔ السوز: اوز: میں ایک لغت۔ بط۔ مونت وزة: ج وزات۔ ارض موزة: بہت بڑی زمینی زمین۔ وزا یوزا وزا اللحم: گوشت خشک کرنا۔ القوم: بعض کا بعض کو بتانا۔ وزاہم: بعض کو بعض سے بتانا۔ وزا توزنة و توزینا القریة: منگ بھرنا۔ الفرس سراکبہ: گھوڑے کا سوار کو گراننا۔ وزا فلانا: سخت قسم کھلانا۔ وزا فلانا: سخت قسم کھلانا۔ سوزا السوعاء: برتن کا بھر جانا۔ السرجل: خوشنما میں بھر پور ہونا۔ وزب یزب ووزیا السماء و نحوہ: پانی وغیرہ کا بہنا۔ اوزب ایزابا فی الارض: جانا۔ الوزاب: شاطر چور۔ الجزاب والمنزاب: پرنالہ ج مینازیب و نمازیب اور قبول بعض موازب۔ وزب یزب ووزا ووزا الشی: اٹھانا۔ السرجل: بوجھل چیزوں کو پیٹھ پر اٹھانا۔ وزرا السرجل: غالب ہونا۔ الشلصة: رخت بند کرنا۔ وزب یزب ووزو ووزو ووزو ووزو ووزا ووزا ووزا ووزا: گنگرہ ہونا۔ ووزر فلان: گناہ سے منسوب کیا جانا۔ وزب یزب ووزا للملک: وزیر بننا۔ اوزب ایزارا الشی: محفوظ کرنا۔ چھپانا۔ لے جانا۔ السرجل: جائے پناہ دینا۔ وازرة مواراة: وزیر بننا۔ مدد دینا۔ تقویت دینا (یہ آرزو کا مطلوب ہے)۔ توزر لہ: وزیر بننا۔</p>	<p>استوز: چھوٹا سا کبلی اور ٹھنڈا۔ چھوٹے سے کبلی کی مانند پینا۔ گناہ کرنا۔ استوزرة: وزیر بنانا۔ استوزر الشی: لے جانا۔ السوز: مہس۔ گناہ۔ گرائی۔ بیماری بوجھ۔ کپڑوں کی ٹھہری۔ ج اوزار۔ اوزار الحروب: سامان جنگ۔ کہا جاتا ہے "وضعت الحرب اوزارها" یعنی جنگ ختم ہوگئی اس لئے کہ اس وقت ہتھیار رکھ دیتے ہیں۔ الوزر: جائے پناہ۔ بلند پہاڑ۔ السوزرة: چھوٹا سا کبلی ج وزرات ووزرات۔ الوزارة والوزارة: وزیر کا مرتبہ۔ السوزیر: امور سلطنت میں بادشاہ کا معین و مددگار۔ مددگار۔ ج وزراء و اوزار۔ الموزور: مہس۔ گنگرہ۔ گناہ سے مہم۔ وزع یزع و یزع و یزع و یزع فلانا و یفلان: روکنا۔ منع کرنا۔ وزع الجیش: ترتیب سے صفوں میں رکھنا۔ کہا جاتا ہے "زاینة یزع الجیش" میں نے اس کو بند کھا کر وہ لشکر کی ترتیب سے صف بندی کر رہا تھا۔ (وزو وعا) فلانا یفلان: بھڑکانا۔ وزع المال: تقسیم کرنا۔ اوزع المال: تقسیم کرنا۔ اوزع بیسہما: تفریق کرنا۔ اصلاح کرنا۔ وزع الشی: الہام کرنا۔ الہام کیا جانا۔ واوزع یہ: بھڑکایا جانا۔ صفت موزع۔ توزع: پراگندہ ہونا۔ القوم المال: آپس میں تقسیم کرنا۔ کہا جاتا ہے "توزع عنہ الافکاز" اس نے بھی ایک کی فکر کی کبھی دوسرے کی۔ و توزعوا ضیوفہم: انہوں نے مہمانوں کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ اتزع: بازار بننا۔ رکنا۔ استوزع: اللہ شکرہ: شکر کی توفیق چاہنا۔</p>
---	---	---

الْوَزَاعُ: فَا- وَائِنْتِ وَالَا- كِتَابُ فَوْجٍ كَأَسَدٍ رَارٍ
نَجْوَزَعَةٌ وَوَزَاعٌ.
الْوَزَاعَةُ: وَازِعٌ: كِي جمع - يادشاہ کے مددگارو
محافظ - اللہ تعالیٰ کے محارم سے باز رکھنے
والے حکام -
الْوَزَاعُ: جماعتیں (اس کا واحد نہیں)
الْمُنْتَرَعُ: فَا- تخت جان -
وَزَعٌ يَبْرُغُ وَوَزَعًا وَأَوْزَعُ بِنَوْلِهِ: تَحْوِزُ تَحْوِزًا
كِر کے پیشاب کرنا اور اسی سے ہے
أَوْزَعَتِ الطَّعْنَةَ بِالذَّمِّ: نیزہ کے زخم سے
تَحْوِزًا تَحْوِزًا أَخْرَجَ نَكَلًا -
وَزَعٌ الْجَبِينُ: صورت بن کر حرکت کرنا -
الْوَزَعُ: کچھ بزدل مرد -
الْوَزَعَةُ: چھپکلی - ج وَزَعٌ وَوَزَاعٌ وَأَوْزَاعٌ
وَزَعَانٌ وَإِزْعَانٌ: الْأَوْزَاعُ: کمزور لوگ -
وَزَفٌ يَزِفُ وَوَزْفًا وَوَزِفًا وَوَزَفٌ تَوْزِفًا
وَأَوْزَفٌ إِيسَافًا: جلدی کرنا (..... وَوَزَفًا)
فَلَاتًا: جلدی کرنا -
وَأَزَفٌ مُوَازِفَةٌ وَتَوَازَفٌ تَوَازِفًا..... الْقَوْمُ
بَعْضٌ كَابَعْضٍ سَمٌّ قَرِيبٌ هُوَا -
السَّوْزَالُ: ایک خاردار درخت جس کے
پتے نہیں ہوتے زرد رنگ کے خوبصورت
پھول ہوتے ہیں -
وَزَمٌ يَزِمُ وَوَزْمًا فَلَاتًا بِفِيهِ: منہ سے آہستہ
سے کاٹنا..... الشَّيْءُ: سوراخ کرنا..... الدُّنْيَانُ
قِرْضٌ أَدَا كِرْنَا (..... وَوَزْمٌ) نَفْسُهُ: دن میں
ایک مرتبہ کھانا -
وَزِمٌ وَوَزْمَةٌ فِي مَالِهِ: کچھ جاتا رہنا -
تَوْزِمٌ: بہت روندنے والا ہونا -
السَّوْزَمُ: مِسٌّ - مقدار - اپنے وقت پر آنے
والا - معاملہ (..... وَالْوَزِيمُ وَالْوَزِيمَةُ)
بِزِي كَا كَتَمَا - گوشت جس کو عقاب اپنے
گھونسلے میں جمع کرتا ہے - السَّوْزِيمُ: گوشت
کا ٹکڑا خشک کیا ہوا - بَزَاچُو ہَا- زَجَلٌ وَوَزِيمٌ
گٹھے ہوئے گوشت کا مرد -
السَّوْزِمَةُ: مِسٌّ - مقدار - دن میں ایک مرتبہ
کی خوراک -

الْوَزَامُ: جلدی -
الْوَزَامُ: بہت گوشت اور عضلہ والا -
السَّوْزِيمُ عِنْدَ أَرَبَاتٍ عِلْمُ النَّبَاتِ: مَوْتٌ
بِنَاتَاتٍ كَاعْضُوْتَا نَيْسٌ -
السَّوْزِيْمِيَّةُ: امریکہ میں ایک لہجے تھے
والے درخت زریب وزینت -
وَزْنٌ يَزِنُ وَوَزْنًا وَوَزْنَةُ الشَّيْءِ: تَوَلْنَا..... لَهُ
الذَّرَاهِمُ وَغَيْرَهَا: تَوَلَّ كِر دِينًا..... الشَّيْءُ
بِشَمْرِ كِي تَقَطُّعٌ كِرْنَا - کہا جاتا ہے "هَلْدَا يَزِنُ
رِطْلًا" یعنی یہ ایک رطل کے برابر ہے -
وَزْنٌ يَسُوْرُنُ وَوَزَانَةُ الشَّيْءِ: يُوْجَمَلُ هُوَا -
صفت وَاَزْنٌ..... الرَّجُلُ: عَظْمٌ دَجِيْدٌ
رَاے ہونا -
وَزْنٌ وَأَوْزَنَ نَفْسَهُ عَلَيَّ مَحْمَدًا: دِل لگاتا -
وَأَزَنَهُ وَوَزَانًا وَمُوَازِنَةٌ: مَقَابِلُ هُوَا - وَزَنَ
مِثْلَ كِر دِينًا..... يَنْبِنُ
الشَّيْءَيْنِ: وَزَنَ مَعْلُومٌ كِرْنِي كَيْلِيَّةً مَقَابِلَهُ
كِرْنَا -
تَوَازَنَ الشَّيْئَانِ: بَابٌ مِثْلُ هُوَا -
اتَّزَنَ: تَلْنَا..... الذَّرَاهِمُ: بِرِكْبَانَا..... الْعِدْلُ:
تَحْمِزِي كَا دَوْرٌ مِثْلُ كِرْنَا ہونا..... الشَّيْءُ
و: زَنَ سَمٌّ لِيْنَا -
الْوَزْنُ: مِسٌّ - مِثَالٌ - ج أَوْزَانٌ كَمَا جَا
ہے "هَلْدَا ذِهْمٌ وَوَزْنٌ" وَزَنَ كَمَا هُوَا -
"وَهَلْدَا زَجَلٌ زَا جَمْعُ الْوَزْنِ" يِي خَشْفٌ
رَاے اور کمال العِشَلُ ہے - کہا جاتا ہے "هُوَ
وَزَانُ الشَّيْءِ أَوْ وَزْنُ الشَّيْءِ أَوْ زِنَةُ الشَّيْءِ
أَوْ يُوْزَانِيهِ أَوْ يُوْزَانِيهِ" وَهَاسُ كِر سَا مِثْلِي
ہے یا وَزَنَ مِثْلُ اس كِر برابر ہے "وَهُوَ
وَزْنُ الْجَبَلِ" وَهَاسُ كِر جَانِبٌ مِثْلِي ہے -
الْوَزْنَةُ: وَزَنَ كَا مِثْلِي - مِثْلِي رَاے - كَامِلٌ
العِشَلُ عَوْرَتٌ - كَمَا جَا ہے "مِمَّا كَحَلُّهُ فِي
الْيَوْمِ إِلَا وَوَزْنَةً وَاحِدَةً" وَنَ مِثْلُ اس كِي
خَوْرَا كِ مِثْلِي ہونا -
الْوِزْنَةُ: وَزَنَ كَا مِثْلِي نَوْعٌ -
السَّوْازِنُ: فَا- كَمَا جَا ہے "ذِهْمٌ
وَأَزِنٌ" دَرَهْمٌ كَامِلٌ -

الْأَوْزُنُ: اسم تفصيل - کہا جاتا ہے "هَلْدَا
الْقَوْلُ أَوْزُنٌ مِّنْ غَيْرِهِ" يِي قَوْلٌ دَوْرٌ مِثْلِي
سے زیادہ قوی ہے "وَهُوَ أَوْزُنُ الْقَوْمِ" وَهَ
قَوْمٌ مِثْلِي زیادہ وجاہت والا ہے -
الْوَزِينُ: اندر آن کے پے ہوئے دانے - کہا
جاتا ہے "فَلَانٌ وَوَزِينُ الرَّايِ" فُلَانٌ سَجِيْدٌ
رَاے ہے -
السَّوْزُونَةُ: پست قدم عظمند عورت -
السَّوْزِينُ: تَرَاوُجٌ - مِثْلِي السَّوْزِينُ: الجَمِيْزَانُ:
مَقْدَارٌ - انصاف - کہا جاتا ہے "إِسْتِقَامٌ
مِيزَانُ النَّهَارِ" دِنٌ آدِهَا هُوَا كَمَا -
وَزُوْرٌ وَوَزُوْرَةٌ: جَمٌّ كِر حَرَكَةٌ دِيْتِي هُوَا
قَرِيْبٌ قَرِيْبٌ قَدَمٌ رَكْحٌ كِر چَلْنَا - ہلکا ہونا اور
جلدی کودنا -
السَّوْزُوْازِنُ: جَمٌّ كِر حَرَكَةٌ دِيْتِي ہونے قَرِيْبٌ قَرِيْبٌ
قَدَمٌ رَكْحٌ كِر چَلْنَا (..... وَالسَّوْزُوْازِنَةُ) اُوْجِصَا
پست قدم مرد - ایک پرندہ -
السَّوْزُوْرُ: فَا- گانے والا -
وَزَيٌ يُوْزِي وَوَزِيًا الشَّيْءُ: جَمٌّ هُوَا - سَكْرَانَا -
الْأَمْرُ فَلَاتًا: غَضَبٌ دِلَانَا -
وَأَزَاةٌ مُوَازَاةٌ: مَقَابِلُ هُوَا -
أَوْزِي الْبِرَاءَةُ: ظَهْرُهُ إِلَى الْخَائِبِ: نَيْكٌ لگاتا
..... لِذَارِهِ: دِيَاوَرٌ كِر مِثْلِي سے لِيْنَا.....
الشَّيْءُ: أَمْثَانَا اور نَيْكٌ لگاتا..... السَّيِّئُ فَلَانٌ
بِنَاهُ لِيْنَا - أَوْزِيْتُهُ إِلَيْهِ: بِنَاهُ لِيْنِي بِرِجْوَر كِرْنَا -
تَوَازِي تَوَازِيًا الشَّيْئَانِ: اِي كِ دَوْرٌ مِثْلِي
مَقَابِلُ هُوَا -
إِسْتَوْزِي إِسْتِيْزَاءٌ فِي الْعَجَلِ: پھاڑ پر
چڑھنا -
الْوِزْيُ: پست قدم گٹھے بدن کا مرد -
السَّوْزُوْرِي: فَا- خَوْدِرَاے - سِيْدِهَا كُرَا
ہونے والا بلند -
وَسَبٌ يَسِبُ وَوَسْبًا وَأَوْسَبُ إِسْبَابًا
السَّكْبَانُ: بہت گھاس والی ہونا - اَوْسَبُ
الْكَبِشُ: بہت اون والا ہونا -
وَسَبٌ يُوْسَبُ وَوَسْبًا النَّوْبُ: كِيْزٌ اَمِيْلَا
ہونا -

الْوَسْبُ: گھاس۔
الْوَسْبُ: مص۔ میل۔
الْوَسْبَابُ: ادھ پکری کھجور۔

وَسَجَتْ تَسْجُ وَتَسْجَا وَوَسِجَا
وَوَسَجَاتُ الْوَيْلِ: تیز چلنا۔ صفت وَاِسْجَاةٌ
أَوْسَجَ الْبَعِيرُ: تیز چلانا۔

الْوَسْجُ وَالْوَسْجَانُ وَالْوَسْجِجُ: اونٹ کی
تیز چال۔

وَسِخٌ يَوْسُخٌ وَيَسْخُ وَيَسْخُ وَمَسْخَا
الشَّيْءُ: میلا ہونا۔ صفت وَيَسْخُ وَيَسْخُ
وَسَخٌ وَأَوْسَخَ الشَّيْءُ: میلا کرنا۔

تَوَسَّخَ وَأَتَسَّخَ اسْتَوْسَخَ: میلا ہونا۔
الْوَسْخُ: میل پھیل۔ جِ أَوْسَاخُ.

وَسَدَّهَ الْوَسَادَةُ: کسی کو تکیہ دینا۔ وَسَدَّ الْيَدِ
الْأَمْرَ: کسی کام کو کسی کے ذمہ کر دینا۔

أَوْسَدَ فِي السَّيْرِ: تیز چلنا..... الْكَلْبُ
بِالصَّيْدِ: کتے کو شکار پر آکسانا۔

تَوَسَّدَ الْوَسَادَةُ: سر کے نیچے تکیہ رکھنا.....
ذِرَاعُهُ: ہاتھ کو تکیہ کی طرح رکھ کر سونا۔

الْوَسَادُ وَالْوَسَادُ وَالْوَسَادُ.....: تکبیر ج
وَسَدَّ كَمَا جَاءَتْ فِي "رَجُلٌ عَرِيضُ
الْوَسَادِ" یعنی غیبی۔ اور "إِنَّ وَسَادَكَ
لَعَرِيضٌ" کنایہ ہے کثرت نوم سے۔

الْوَسَادَةُ وَالْوَسَادَةُ وَالْوَسَادَةُ: تکبیر ج
وَسَادَاتٌ وَوَسَادَاتٌ وَوَسَادَاتٌ
وَوَسَائِدُ.

وَسَطٌ يَسِطُ وَسَطًا وَسِطَةً الْمَكَانَ أَوْ
الْقَوْمَ: بیچ میں بیٹھنا۔ صفت وَأَسِطُ
(..... وَسِطَةُ الْقَوْمِ وَفِيهِمْ: قوم میں حق و
عدل میں متوسط ہونا۔

وَسَطٌ يَوْسُطُ وَسِطَةً: شریف ہونا۔
صاحب حسب ہونا۔

وَسَطٌ يَسِطُ وَسِطَةً وَسِطَةً وَوَسَطٌ فِي
حَسَبِهِ: شریف و صاحب حسب ہونا۔

وَسَطٌ يَسِطُ وَسِطَةً وَسِطَةً وَوَسَطٌ فِي
الْأَصَابِعِ: بیچ کی انگلی۔

وَسَطَةٌ: ثالث بنانا۔ بیچ میں کرنا۔ وَسَطُ
الشَّيْءِ: دو ٹکڑے کرنا۔

أَوْسَطُ الْبَيْتِ أَوْ الْقَوْمِ: بیچ میں داخل ہونا۔
تَوَسَّطَ الْقَوْمَ أَوْ الْمَكَانَ: بیچ میں بیٹھنا.....
بَيْنَهُمْ: ثالث و مصلح بننا..... الرَّجُلُ: درمیانی
چیز لینا۔

الْوَسْطُ (واحد جمع مذکر مؤنث کے لئے)
معتدل۔ مثلاً کہا جاتا ہے "شَيْءٌ وَسَطٌ" یعنی
عمدہ اور ردی چیزوں کی درمیانی چیز ج
أَوْسَطُ وَسَطُ الشَّيْءِ: دونوں اطراف کے
درمیان جیسے وَسَطُ الْحَجَلِ وَوَسَطُ
الذَّارِ وَرَجُلٌ وَسَطٌ صَاحِبُ حَسَبٍ مَرْدٍ أَوْ رَجُلٌ
جَاطَا ہے "هُوَ فِي وَسَطِ الْقَوْمِ وَفِي
وَسَطِهِمْ" یعنی وہ قوم کے درمیان میں ہے
اور بعضوں نے کہا ہے کہ ہر وہ موقع جہاں پر
لفظ وسط کے عوض بین رکھ سکتے ہوں وہ
ساکن الاوسط ہوتا ہے ورنہ متحرک الاوسط
اور اسی لحاظ سے کہتے ہیں "وَسَطُ الْقَوْمِ"
اور "وَسَطُ الْحَجَلِ".

الْوَسِيطُ: فا۔ دروازہ۔ پالان کا اگلا حصہ۔
الْوَسِيطَةُ: واسط۔ کامؤنث۔ پالان کا اگلا
حصہ۔ ہار کے بیچ کا عمدہ جوہر۔ ذریعہ۔
سبب۔ کہا جاتا ہے "مَنْ بَوَّاسِطَةً كَذَا" وہ
قلاں کے ذریعہ سے تھا۔ ثالث اور کہا جاتا
ہے "فَلَانٌ فِي وَسِيطَةِ قَوْمِهِ" قلاں اپنی قوم
میں سب سے اچھا ہے۔
الْوَسِيطَةُ: مص۔ ثالثی۔

الْوَسِيطُ: دو جھگڑا کرنے والوں کے
درمیان ثالث جِ وَوَسِطَةُ مَوْثِ
وَسِيطَةٌ أَوْ رَجُلٌ كَمَا جَاءَتْ فِي "هُوَ وَسِيطٌ
فِيهِمْ" وہ بلند مرتبہ اور شریف النسب ہے۔
الْأَوْسَطُ: متوسط۔ معتدل جِ أَوْسِطُ
أَوْسَطُ الشَّيْءِ: دونوں اطراف کا درمیان۔
الْعِلْمُ الْأَوْسَطُ: علم ریاضی اور اس کو حکمت
وسطنی بھی کہتے ہیں۔
الْوَسْطِيُّ: أَوْسَطُ: کامؤنث جِ وَسَطٌ بَيْنَ
الْأَصَابِعِ: بیچ کی انگلی۔

الْوَسْطُ: درمیانی۔ بالوں کا خیمہ یا چھوٹا
خیمہ۔

وَسُوطُ الشَّمْسِ: آفتاب کا آسمان کے بیچ
میں آنا۔

هُوَ وَسَطُ الْبَيْتِ: گھر کا درمیانی حصہ۔
الْمُتَوَسِّطُ: فا۔ الْبَحْرُ الْمُتَوَسِّطُ: وہ سمندر
جو یورپ، ایشیا اور افریقہ کے درمیان ہے
اور جس کو بحر ابيض اور بحر روم بھی کہتے ہیں۔

وَسِعَ يَسَعُ وَيَسَعُ وَسِعَةً وَسِعَةَ الْمَكَانِ
: كشاده ہونا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا الْإِنْسَانُ
يَسَعُ عَشْرِينَ كَيْلًا" یعنی اس برتن میں میں
کیل کی گنجائش ہے۔ "وَوَسِعَتْ رَحْمَةُ
اللَّهِ كُلَّ شَيْءٍ وَلِكُلِّ شَيْءٍ وَعَلَى كُلِّ
شَيْءٍ" اللہ تعالیٰ کی رحمت سب چیزوں کا
احاطہ کئے ہوئے ہے "وَمَا أَسَعُ هَذَا" میں
اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ "لَا يَسْعُكَ أَنْ
تَفْعَلَ هَذَا" تمہارے لئے جائز نہیں کہ تم یہ
کرو۔ تم اس کے کرنے پر قادر نہیں ہو
"وَوَسِعَ الْقَوْمُ فَضْلَهُ" اس کا فضل ساری
قوم کو عام ہے "وَوَسِعَ الْمَالُ الدِّينَ" یعنی
مال بہت ہے یہاں تک کہ سارے قرض کی
اداگی کے لئے کافی ہے۔

وَسِعَ يَوْسَعُ وَسَعًا وَسَعًا اللَّهُ عَلَيْهِمْ رِزْقَهُ
: بكثرت دینا۔ كشاده کرنا اور کہا جاتا ہے
"وَسَعَ عَلَيْهِ" جبکہ غنی کر دے۔

وَسِعَ يَوْسَعُ سَعَةً وَوَسَاعَةُ الْمَكَانِ
: كشاده ہونا..... الْفَرَسُ: كشاده قدم ہونا۔
أَوْسَعُ: مالدار ہونا..... الْمَوْضِعُ: كشاده پانا
..... الثَّقْفَةُ: بہت خرچ کرنا (..... وَوَسَعُ)
Kshadah کرنا..... اللَّهُ عَلَيْهِ: مالدار بنانا۔
وَأَوْسَعَهُ الشَّيْءُ: کسی چیز کو گنجائش کا بنانا۔
تَوَسَّعَ: كشadah ہونا..... الْقَوْمُ فِي الْمَكَانِ:
Kshadگی کرنا..... الرَّجُلُ فِي الثَّقْفَةِ: زیادہ
خرچ کرنا۔

اتَّسَعَ: كشadah ہونا..... الرَّجُلُ: صاحب
وسعت و مالدار ہونا..... السَّهَابُ: طویل و
دراز ہونا۔

اِسْتَوْسَعُ: كشادہ ہونا..... اَلشَّيْءُ: كشادہ پانا یا طلب کرنا۔

الْوَابِعُ: فا۔ كشادہ..... فِى الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى: اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ہے جس کے معنی ہیں بہت دینے والا یا ہر چیز پر احاطہ کرنے والا۔

الْوَسْعُ وَالْوَسْعُ الْوَسْعُ: طاقت۔ کہا جاتا ہے "لَيْسَ فِى وَسْعِهِ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا" یعنی اس کے کرنے پر وہ قادر نہیں۔

السَّعَةُ وَالْوَسْعَةُ وَالْوَسْعَةُ: گنجائش السَّعَةُ تو انگریزی معنی۔ طاقت۔ قدرت۔

الْوَسْبِيُّعُ: كشادہ..... مِنَ الْخَيْلِ: كشادہ قدم گھوڑا۔

الْوَسْبَاعُ مِنَ الْخَيْلِ: عمدہ یا كشادہ قدم گھوڑا۔

وَسَفَّ تَوَسَّفًا: اَلشَّيْءُ: چھیلنا۔

تَوَسَّفَ الشَّيْءُ: چھلنا..... الْبَعِيرُ: موٹا ہونا اور پرانے بال کر کے نئے بال لگانا..... أَوْبَارُ الْإِبِلِ: اونٹ کے اُونٹ کا جھڑ جانا۔

وَسَقَّ يَسْقُ وَشَقَّ الشَّيْءُ: جمع کر کے اٹھانا..... الْبَعِيرُ: اُونٹ پر ایک وسق (سانچہ صاع) لادنا۔ اَوْسَقَتِ السَّاقَةَ وَغَيْرَهَا

: اُونٹنی کا حاملہ ہونا۔ صفت و اِسْقَ ج و اِسْقَاتِ و وساق اور مَوَسِقِ و مَوَسِيقِ

: خلاف قیاس جمع ہیں۔ وَوَسَقَتِ الْعَيْنُ الْمَاءَ: آنکھ میں پانی ہونا۔ کہا جاتا ہے "لَا

أَفْعَلَ ذَلِكَ مَا وَسَقَتْ عَيْنِي الْمَاءَ" میں اس کو نہیں کروں گا جب تک میری آنکھوں

میں پانی ہے۔ وَوَسَقَتِ النَّخْلَةَ: پھل دار ہونا..... وَسِيقًا: اَلْبَعِيرُ: ہانکنا۔

وَسَقَ الْحِنطَةَ: سانچہ سانچہ صاع کا گیہوں کا ڈھیر لگانا۔

أَوْسَقَ اِسْقًا اِسْقًا الدَّائِمَةَ: لادنا۔ اَوْسَقَتِ النَّخْلَةَ: بہت پھل دار ہونا۔

وَأَسَقَهُ مَوَسِقًا: برابری کرنا۔ متاثر کرنا۔ اِسْقَ الْأَمْرُ: مرتب ہونا..... الْإِبِلُ: اُونٹوں

کا اکٹھا ہونا..... الْقَمَرُ: چاند کا پورا ہونا۔

اِسْتَوْسَقَ اِسْتِيسَاقًا: اکٹھا ہونا۔ الْأَمْرُ: مرتب ہونا..... لَهُ الْأَمْرُ: ممکن ہونا۔

الْوَسَقُ: موص۔ ساٹھ صاع اور بقول بعض ایک اُونٹ کا بوجھ اَوْسَقَ: الوَسَقُ

: درخت خرما کا بوجھ۔ ج اَوْسَقَ: صاع و وَسُقُ۔

الْوَسِيقُ: موص۔ دھکار۔ بارش۔ السُّوسِيقَةُ مِنَ الْإِبِلِ: اُونٹوں کا گلہ۔ ج

وَسَائِقُ: الوَسِيقَةُ: حاملہ۔ کہا جاتا ہے نَاقَةٌ وَسِيقَةٌ: حاملہ اُونٹنی۔

المُتَسِيقُ عِنْدَ أَهْلِ الْعَرَبِ وَوَسُقُ: اوزان شعر میں ایک وزن ہے۔ جس کا نام متدارک

بھی ہے۔ المُتَسِيقُ: چاند کا نام۔

الْمِيسَاقُ مِنَ الْحَمَامِ: بڑے بازوؤں والا کبوتر ج مِيسَاقٌ وَمِيسَاقٌ: المِيسَاقُ: پرندہ جو اڑنے میں پھڑ پھڑائے۔

وَسَلَّ يَسِلُّ وَسَيْلَةٌ وَوَسَّلَ وَتَوَسَّلَ إِلَى اللَّهِ يَعْمَلُ أَوْ وَسَيْلَةً: تقرب حاصل کرنا۔ صفت و اِيسَلُ۔

الْوَابِلَةُ وَالْوَابِلَةُ: تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ج وَسَيْلٌ وَسَيْلٌ وَوَسَائِلُ وَوَسَّلَ الْوَابِلَةَ وَالْوَابِلَةَ: مرتبہ۔ درجہ۔

وَسَمَةٌ يَسُمُّهُ وَسَمًا وَسَمَةٌ: داغ لگانا۔ وَوَسَمَ الْوَسْمِيُّ الْأَرْضَ: بہمار کی پہلی بارش ہونا۔

وَسَمَ يَوْمًا وَسَمًا وَوَسَمَةُ الْغَلَامِ: خوبصورت چہرے والا ہونا..... الْوَسْجَةُ: خوبصورت ہونا۔

وَسَمَ: جمع کے موقع پر مکہ میں حاضر ہونا۔ وَوَسَمَةُ مَوَسَمَةٌ: خوبصورتی میں مقابلہ کرنا۔

تَوَسَّمُ الشَّيْءُ: فراست سے معلوم کرنا۔ علامت طلب کرنا۔ پہچاننا۔ تَوَسَّمُ فِيهِ الْخَيْرُ: بھلائی معلوم کرنا..... الرَّجُلُ: موسم بہمار کی گھاس کو تلاش کرنا۔ تَوَسَّمُ بِالْوَسْمَةِ: دوسرے لگانا۔

اِسْتَوْسَمَ: اپنی علامت بنانا۔

اِسْتَوْسَمَ: فراست سے معلوم کرنا۔ علامت طلب کرنا۔ پہچاننا۔ تَوَسَّمُ فِيهِ الْخَيْرُ: بھلائی معلوم کرنا..... الرَّجُلُ: موسم بہمار کی گھاس کو تلاش کرنا۔ تَوَسَّمُ بِالْوَسْمَةِ: دوسرے لگانا۔

اِسْتَوْسَمَ: اپنی علامت بنانا۔

اِسْتَوْسَمَ: فراست سے معلوم کرنا۔ علامت طلب کرنا۔ پہچاننا۔ تَوَسَّمُ فِيهِ الْخَيْرُ: بھلائی معلوم کرنا..... الرَّجُلُ: موسم بہمار کی گھاس کو تلاش کرنا۔ تَوَسَّمُ بِالْوَسْمَةِ: دوسرے لگانا۔

اِسْتَوْسَمَ: اپنی علامت بنانا۔

الْوَسْمُ: موص۔ ایک درخت ہے جس کے پتوں کو بطور خضاب کے استعمال کرتے ہیں۔ علامت داغ کا نشان۔ ج وَسْمُومُ۔

أَيْسَمَةٌ: پھول کی پتی کا اوپر والا حصہ۔ جُزْءُ الْمَدْفِقَةِ: پھول پتوں کو جمع کرنے والا حصہ۔

السِّمَةُ: موص۔ علامت۔ داغ کا نشان۔ ج سِمَاتُ۔

الْوَسْمِيُّ: موسم بہمار کی پہلی بارش۔ الْوَسَامُ: جانوروں کا داغ۔ تَمْرُجٌ أَوْسَمَةٌ: الوَسْمَةُ وَالْوَسْمَةُ: نیل کے پتے یا ایک قسم کی نباتات جس کے پتوں سے خضاب

کرتے ہیں۔ الْوَسِيمُ: خوبصورت چہرے والا ج وَسَمَاءُ وَوَسَامٌ مَوْنٌ وَسِيمَةٌ ج وَسِيمَاتُ وَوَسَامُ۔

الْوَسَامَةُ: موص۔ خوبصورتی کا اثر۔ حَسَنٌ وَجَمَالُ۔

الْوَسْمُ: خوبصورت۔ الْوَسِيمُ: لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ۔ اکثر استعمال ج کے موقع کے لئے ہوتا ہے اور عید کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔ ج مَوَسِمُ۔

المِيسَمُ: داغ لگانے کا آلہ۔ داغ کا نشان ج مِيسَمِمْ۔ حَسَنٌ وَجَمَالُ۔

المَوَسِمُ: داغ لگائے ہوئے اونٹ۔ وَوَسِنٌ يَوْمٌ وَسِنًا وَسِنَةٌ: اُوگھنا۔ بیدار ہونا (خند) صفت مَدْرُوسِنٌ وَوَسِنَانٌ وَوَسِنَانٌ صفت مَوْنٌ وَسِنَةٌ وَوَسِنِي وَوَسِنَانٌ۔ وَوَسِنٌ فَلَانٌ: کتوں کی بدبو سے غشی طاری ہونا۔

أَوْسَنَتَهُ الْبُؤْسُ: غشی طاری کرنا۔ تَوَسَّنَتْهُ: نیند کے وقت آنا۔ اِسْتَوْسَنَ: اُوگھنا۔

الْوَسْنُ: موص۔ ضرورت۔ حاجت۔ ج اَوْسَانُ۔

السِّنَةُ: موص۔ اُوگھ۔ غنودگی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ فِي سِنَةٍ" وہ غفلت میں ہے۔

السِّنَةُ: موص۔ اُوگھ۔ غنودگی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ فِي سِنَةٍ" وہ غفلت میں ہے۔

السِّنَةُ: موص۔ اُوگھ۔ غنودگی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ فِي سِنَةٍ" وہ غفلت میں ہے۔

السِّنَةُ: موص۔ اُوگھ۔ غنودگی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ فِي سِنَةٍ" وہ غفلت میں ہے۔

السِّنَةُ: موص۔ اُوگھ۔ غنودگی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ فِي سِنَةٍ" وہ غفلت میں ہے۔

السِّنَةُ: موص۔ اُوگھ۔ غنودگی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ فِي سِنَةٍ" وہ غفلت میں ہے۔

السِّنَةُ: موص۔ اُوگھ۔ غنودگی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ فِي سِنَةٍ" وہ غفلت میں ہے۔

السِّنَةُ: موص۔ اُوگھ۔ غنودگی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ فِي سِنَةٍ" وہ غفلت میں ہے۔

الْوَسْنَةُ: عَص - نیند کی کمی - اونگھ -

الْوَسْنِيُّ: بہت اونگھنے والا -

الْمُؤَسُّونُ: کامل - مؤنث مؤسونة -

وَسْوَسَ وَسْوَسًا وَسْوَسَةَ الشَّيْطَانِ لَهُ

وَالْيَهُ وَسَوْسَةٌ النَّاسِ..... الرَّجُلُ: خرابی عقل کی

وجہ سے بے فکری باتیں کرنا - وسوسہ والا ہونا -

عفت مؤسوس: آہستہ بولنا..... الخليلي او

الْقَصْبُ: جھنکار ہونا یا آواز نکلنا..... الرَّجُلُ

بِكَيْسٍ آہستہ گفتگو کرنا -

وَسْوَسَ بِهِ: کلام میں گڑبڑی ہونا -

الْمُؤَسَّوَسُ: وسوس کا اسم - شیطان - ایک

مرض ہے جو غلبہ سوداء کی وجہ سے پیدا ہوجاتا

ہے - دل میں جو برائی یا بے نفع بات

گزرے اس پر بھی اطلاق ہوتا ہے - ج

وَسَاوَسَ:

وَسِي يَمْسِي وَسِيًا رَأْسَهُ: موٹنا -

وَأَسَى الرَّجُلُ مَوَاسَاةً أَسَاهُ مَوَاسَاةً: میں

ایک لغت ہے بمعنی مدد دینا -

أَوْسَى إِنْسَاءً، الرَّأْسُ: موٹنا - الشَّيْءُ

كَانَ:

المؤسسى: استرہ - ج مؤاس

الْوَسْبُ: سخت قسم کی کھجور وغیرہ -

الْوَسْبُ: أَوْشَابُ: کا واحد بمعنی اخلاط اس

طرح طرح کے لوگ -

وَشَجَّتْ تَشَجَّتْ وَشَجًّا الْأَعْضَانُ: ٹہنیوں کا

ایک دوسرے میں جھٹکی ہوئی ہونا - کہا جاتا

ہے "وَشَجَّتْ بِكَ قَرَابَتُهُ" تمہارے

ساتھ اس کی قرابت مل گئی - "وَوَشَجَّتْ

فِي قَلْبِهِ أُمُورٌ وَهُمُومٌ" اس کے دل میں

مختلف قسم کے امور اور غم لاحق ہیں (.....)

وَوَشَّجَ مَحْمَلَهُ: کچھ کرنے سے بچانے

کے لئے سمر سے باندھنا - وَشَّجَ اللَّهُ قَرَابَتَهُ

بِحُكْمِ: اللہ اس کی قرابت کو تم سے ملا دے -

وَوَشَّجَ اللَّهُ بَيْنَ الْقَوْمِ: اللہ نے لوگوں کو

آپس میں ملا دیا -

تَوَشَّجَتْ وَتَوَاشَّجَتْ عُرُوفُ الشَّجَرَةِ

وَنَحْوَهَا: پیچیدہ ہونا -

الْوَشِيجُ: فَا - پیچیدہ - مَوْثٌ وَاشِيجَةٌ

الْوَأِشِيجَةُ: باہم پیوستہ قرابت -

الْوَشِيجُ: قرابت ورشتہ داری کی باہم

پیوستگی - نیزوں کا درخت - نیزوں کے لئے

بھی بولا جاتا ہے کہتے ہیں تَطَاعَنُوا

بِالْوَشِيجِ:

الْوَشِيجَةُ: درخت کے ریشہ کی رسی جس کو

بن کو دو ٹکڑیوں میں پھنسا دیتے ہیں اور اس

پر گتے ہوں وغیرہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل

کرتے ہیں - ج وَشَاجِحَ کہا جاتا ہے "هَمْ

وَشِيجَةُ الْقَوْمِ" وہ لوگ قوم میں اجنبی ہیں -

الْوَشِيجَةُ: کان کی رگ - ج وَشَاجِحَ:

وَشِيجَةٌ: جمیل پہنا نا -

تَوَشَّحَ وَاشَّحَ: جمیل پہننا - تَوَشَّحَ بِسَيْفِهِ:

تلوار کو گردن میں لٹکاتا.....

بَشَوَيْهَ: کپڑا پہننا یا نعل کے نیچے سے نکال کر

کندھے پر ڈالنا..... العجل: پہاڑ پر چلنا -

الْوَشَّاحُ: تلوار - کمان - ذُو الْوَشَّاحِ

: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تلوار کا نام -

(الْوَشَّاحُ) جمیل - جزاؤ جینا - ج وَشَّحَ

وَأَوْشَحَهُ وَوَشَّاحَ:

الْوَشَّاحَةُ: تلوار -

الْوَشَّاحَاءُ: کالی بکری جس کی گردن اور سینہ

سفید ہو -

المَوْشِجُ: اشعار کی ایک قسم جو خاص اوزان

اور قوافی پر نظم کئے جاتے ہیں مگر اس میں

تاظم ایک ہی قافیہ کا پابند نہیں ہوتا اور یہ

اندکی شعراء کا اختراع ہے -

المَوْشِجَةُ مِنَ الطَّيْرِ او الطَّبَّاءِ: پرندہ یا

ہرن جس کے دونوں پہلوؤں پر دو سفید

دھاریاں ہوں -

وَوَشَّرَ يَشُرُّ وَشَرًّا أَسْنَانَهُ: دانتوں کو تیز اور

باریک کرنا..... الخشبية بالميشار: ککڑی کو

آرہ سے چیرنا -

إِتَشَّرَ وَإِسْتَوْشَّرَ: دانت تیز اور باریک

کرنے کو کہنا -

المِيشَارُ: آرہ -

المَوْشُورُ ثَلَاثِيٌّ رُبَاعِيٌّ خَمَّاسِيٌّ: جس کے

قاعدے ثلاثی رباعی اور خماسی ہوں -

المَوْشُورُ: مفع..... فَمِنْ عِلْمِ الطَّبِيعِيَّاتِ

: علم طبیعیات کی اصطلاح میں اُس بلوری

جسم کو کہتے ہیں جس کے تین ضلعے ہوں - ج

مَوَاشِيرُ:

وَشَّرَ يَشُرُّ وَشَرًّا: جلدی کرنا -

تَوَشَّرَ لِلشَّرِّ: آمادہ برائی ہونا -

المَوْشَرُ وَالْوَشَرُ: جلدی - بلند مکان جس کی

پناہ لی جائے - حَقِّي زَمَدَانِيَّ جِ أَوْشَارُ:

المَوْشِيرَةُ: بہت بھرا ہوا تکیہ ج وَشَائِرُ:

وَشَطَّ يَشِطُّ وَشَطًّا الْعَظْمُ: ہڈی کا ٹکڑا

توڑنا..... الفسائ: کلہاڑے میں پتھر لگا کر

سورخ تنگ کرنا..... الْقَوْمُ الْيُنَا: کم لوگوں

کا آ کر ملنا -

الْوَشِيطُ: تابع - حليف - قوم میں اجنبی

آدمی ملا ہوا - خيس - مختلف النسل لوگ -

ج أَوْشَاطُ (وَالْوَشِيطَةُ) ککڑی کا ٹکڑا

جس سے پیالہ کو جوڑیں - کہا جاتا ہے "هَمْ

وَشِيطَةٌ فِي قَوْمِهِمْ" وہ لوگ اپنی قوم میں

فرد مایہ ہیں اور ایسا ہی "هُوَ وَشِيطَةٌ فِيهِمْ"

ج وَشَائِظُ:

وَشَعَّ يَشَعُّ وَشَعًّا الشَّيْءُ: ملانا - الْقَطْنُ

: زردی کو لیٹینا (..... وَشَعَا وَوَشَعَا)

العجل وفيه: پہاڑ پر چڑھنا..... النقلة

: پھولدار ہونا..... ة الشئ: بلند ہونا -

وَشَعَّ الْقَطْنُ: زردی دھننے کے بعد لیٹینا.....

النَّوْبُ: کپڑے پر نقش دنگار کرنا.....

الشَّيْبُ رَأْسُهُ: سر میں سفیدی چھا جانا.....

الشئ في الشئ: داخل ہونا - وَشَعُوا عَلَى

كَوْمِهِمْ او بُسْتَانِهِمْ: باغ میں باز لگانا -

أَوْشَعُ الْبَقْلِ او الشَّجَرِ: سبزی یا درخت کا

پھول دار ہونا -

تَوَشَّعَ الشئُ: پرانگندہ ہونا..... فِي الْعَجَلِ:

پہاڑ میں دامیں بائیں جانا..... الشَّيْبُ

رَأْسُهُ: سر میں سفیدی چھا جانا - تَوَشَّعُوا

الصُّيُوفُ: ہر ایک کا مہمانوں کی ایک

جماعت کو اپنے گھر لے جانا۔ تَوَشَّعَ بِهِ
بہت ہونا۔ بِالْكَذِبِ: جھوٹ سے مزین
ہونا۔ الْغَنَمِ فِي الْحَبْلِ: بکریوں کا چرنے
کے لئے پہاڑ پر چڑھنا۔
الْوَشَّعُ: مِصْرٌ۔ سبزیوں کے ٹھونڈے۔ پہاڑ
میں تھوڑی سی نباتات جِ وَشُوعٍ۔
الْوَشَّعُ: مِصْرٌ کی نباتات۔
الْوَشَّوْعُ: پہاڑ میں متفرق نباتات۔ حلق
میں پکانے کی دوا۔
الْوَشَّيْعُ: کپڑے کا نقش و نگار باغ کے
ارد گرد کی باز۔ مکان کی چھت یا چٹائی وغیرہ
جو چھت کے قائم مقام ہو۔ خشک ہو کر گر گیا
درخت۔ مردار لشکر کا خیمہ جہاں سے وہ فوج
کی نقل و حرکت کو دیکھ سکے۔ کنوئیں کے
سرے کی موٹی سی لکڑی جس پر کھڑے ہو کر
پانی کھینچیں۔
الْوَشَّيْعَةُ: رنگ برنگ کے سوت لپٹنے کی
لکڑی بننے والے کی نال ہر بیچیدہ چیز۔
خبار کی دھاری جِ وَشَّيْعٍ وَشَّانِعٍ۔
المَوْشَعُ: مِشَقٌ۔ بُوْدٌ مَوْشَعٌ: مِشَقٌ ودھاری
دار چادر۔
وَشَّعٌ يَشَّعُ وَشَّعًا بِنُوْلِهِ: پیشاب کرنا۔
وَشَّعَ النَّوْبُ بِالسَّوْمِ: کپڑے پر خون لت
پت کر کے دھاری دار کر دینا۔
أَوْشَعُ الْإِنْسَانُ الْعَطِشَةُ: کم دینا۔ بِنُوْلِهِ:
پیشاب کرنا۔
تَوَشَّعَ بِالسُّوءِ: آلودہ ہونا۔
الْوَشَّعُ وَالْوَشَّيْعُ: تھوڑا۔
الْوَشَّوْعُ: مِصْرٌ میں پکانے کی دوا۔
وَشَّعَهُ يَشَّعُهُ وَشَّعًا: خراش کرنا۔
بِالرَّوْحِ: تیز ہارنا۔ وَشَّقَ اللَّحْمَ: گوشت
کے پارے کاٹ کر خشک کرنا۔ السَّرْحُلُ
جلدی کرنا۔
وَشَّقَ الشَّيْءَ: بکڑے بکڑے کرنا۔
أَوْشَقَ الشَّيْءَ فِي الشَّيْءِ: چمٹنا۔
تَوَشَّقَ وَتَشَّقَ الْقَوْمُ الْعُدُوَّ بِأَسْيَافِهِمْ
دشمن کو تلواروں سے بکڑے بکڑے کرنا۔

وَإَتَشَّقَ فَلَانَ اللَّحْمَ: گوشت کے پارے
کاٹ کر خشک کرنا۔
السَّوَشِيقُ: فَا۔ تھوڑا دودھ۔ جلدی سے
گزرنے والی چیز جیسے عمر اور زمانہ۔ سَاشِيقُ
میں ایک نعت۔
الْوَشَّقُ: مِصْرٌ۔ متفرق چراگاہ۔
الْوَشَّقُ: ایک جانور کا نام جس کی کھال سے
عمدہ پوتین تیار ہوتی ہے۔
الْوَشَّيْقُ وَالْوَشَّيْقَةُ: خشک کیا ہوا گوشت کا
پارچہ جِ وَشَّانِقٍ۔
المِشَّاقُ: بچی کا دندانہ۔ جِ مَوْاشِيقٍ۔
وَشَّكٌ يَوْشَكُ وَشَّكًا وَشَّكَاةٌ
وَوَشَّكٌ الْأَمْرُ: جلدی ہونا۔ صفت
وَشَّيْكٌ۔
أَوْشَكٌ: جلدی چلنا اور قریب ہونا اور اسی
سے ہے أَوْشَكُ أَنْ يَمُوتَ: وہ مرنے
کے قریب ہی تھا اور یہ افعال مقار بہ میں
سے ہے۔ مضارع کا استعمال ماضی سے
زیادہ ہے اور اسم فاعل کا استعمال بہت کم
ہے اور اس کی خبر پراکثر آن آتا ہے۔
وَأَشَكُ مَوْاشِكَةٌ: جلدی چلنا۔
الْوَشَّكُ وَالْوَشَّكُ وَالْوَشَّكَانُ
وَالْوَشَّكَانُ وَالْوَشَّكَانُ: جلدی۔ اور کہا
جاتا ہے وَشَّكَانٌ مَا يَكُونُ ذَلِكَ: یعنی یہ
جلدی ہوا۔ یا یہ کس قدر جلدی ہونے کو
ہے۔ اور یہ اسم فاعل ہے۔
الْوَشَّكُ: جلدی۔
الْوَشَّيْكُ (نذکرہ مَوْنَت) جلد باز۔
قریب۔ کہا جاتا ہے "خَسِرَجٌ وَشَّيْكًا" وہ
جلدی نکلا۔
وَشَّلَ يَشَّلُ وَشَلًا وَوَشَّلَاتَا الْمَاءَ: پانی کا
بہنا۔ مِشَّانَا (وَشُّوْلًا) کزور ہونا۔ محتاج
ہونا۔ إِلَيْهِ: عاجزی ظاہر کرنا۔
أَوْشَلُ الْمَاءِ: پانی کم پانا۔ حَظْلَةٌ: کم کرنا۔
الْوَشَّلُ: تھوڑا پانی جو پہاڑ یا چٹان سے نچکے
تھوڑا آنسو۔ بہت پانی یا آنسو (ضد) جِ
أَوْشَلًا۔ الوَشَّلُ: ہیبت۔ خوف۔ کہا جاتا

ہے "جَاءَ الْقَوْمُ أَوْشَلًا" قوم ایک
دوسرے کے پیچھے آئی۔
عُيُونٌ وَشَلَةٌ: کم پانی والے چشمے۔
الْوَأْبِلُ: فَا۔ مِنْ الْعِبَالِ: پہاڑ جس سے
بیش پانی نچکے۔ کہا جاتا ہے "فَلَانَ وَالْبِئْلُ
السَّرَى" فلاں کزور رائے والا ہے۔ "وَهُوَ
وَأْبِلُ الْحِطَّةِ" وہ ناقص حصہ والا ہے۔
نَسَاقَةٌ وَشْوَلٌ: زیادہ دودھ والی۔ کم دودھ
والی اونٹنی۔
الْوَشْوَلُ: دولت کی کمی۔ نقصان۔
وَشَمَّ يَشُمُّ وَشَمًا وَشَمًّا وَشَمَّ الْيَدَ: ہاتھ میں
گودنا۔ وَشَمَّ الْعُضُنُ: ہنسی میں پتے ظاہر
ہونا۔
أَوْشَمَّ إِشْمَامًا الْمَكَانَ: ہریالی ہونا۔ الْكُزْمُ
: اگور کا رنگ پکڑنا۔ الشَّيْبُ فِي رَأْسِهِ:
بڑھاپے کی سفیدی پھیلنا۔ السَّرْفِيُّ: بجلی کا
آہستہ چمکنا۔ السَّمَاءُ: بجلی کو دنا۔ فِي
عَرَضِ فَلَانَ: گالی دینا۔ عَيْبٌ لَكَ: جی
الْأَمْرُ: غور و فکر کرنا۔ أَوْشَمَّتِ الْحَجَارِيَّةُ
: پستان کا ابھار شروع ہونا اور کہا جاتا ہے
"أَوْشَمَّ يَفْعَلُ كَذَا" وہ ایسا کرنے لگا۔
إِسْتَوْشَمَّ إِسْتِشْمَامًا: گودنے کے لئے کہنا۔
الْوَشْمُ: مِصْرٌ۔ گودائی۔ گودنے کا اثر۔
نباتات کی پہلی روئیدگی۔ جِ وَشْمُومٌ
وَوَشَامٌ۔
الْوَشْمَةُ وَشَمٌ: کا اسم مرہ۔ بارش کا قطرہ۔
کہا جاتا ہے "مَاعَصَاهُ وَشْمَةٌ" اس نے
اس کی ذرا بھی نافرمانی نہیں کی۔
الْوَشْيَمَةُ: دشمنی برائی۔
تَوَشَّنَ الْمَاءُ: پانی کم ہونا۔
الْوَشْنُ: بلند زمین۔ مونا اونٹ۔
الْأَوْشَنُ: دوسرے کے دسترخوان پر کھانا
کھانے والا۔
وَشَّوَشَ وَشَّوَشَةً فَلَانًا: آہستہ گفتگو کرنا
..... الشَّيْءَ: دھیرے سے دینا۔
تَوَشَّوَشَ الْقَوْمُ: ایک دوسرے سے آہستہ
آہستہ گفتگو کرنا۔

الْوَشْوَشُ وَالْوَشْوَاشُ: ہلکا۔ جلد باز۔ رَجُلٌ وَشْوَشِيٌّ الْبَدْرَاعُ: کام کرنے میں پھرتیلا مرد۔ وَشِي يَشِي وَشِيًا وَشِيَّةً وَوَشَى الْقُوبَ : منقش کرنا..... الکلام: جموت ہونا۔ وَشَاءَ قَوْلًا: کپڑا پہنانا۔ وَشِي يَشِي وَشِيًا وَشِيَّةً وَوَشَى بِهِ إِلَى السَّبَلِكِ: چغل خوری کرنا..... بَنُو فُلَانٍ : بکثرت ہونا۔ أَوْشَى إِثْنَاءَ الْمَكَانِ: ابتدائی نباتات ظاہر ہونا..... الرَّجُلُ: بہت مویشی والا ہونا الْمَعْدُنُ: کان میں تھوڑا سا سونا پایا جاتا السَّخْلَةُ: پہلا پھل نکالنا..... الشِّي : نکالنا۔ جاننا..... الْفَرَسُ: گھوڑے کو اُکسانا السَّدْوَاءُ الْمَرِيضُ: دوا کا مریض کو تندرست کرنا..... فِي الدَّرَاهِمِ: کچھ لینا۔ تَشْوَشِيٌّ: نقش و نگار ہونا..... الشَّيْبُ فِي رَأْسِهِ: سر میں سفیدی کا پھیلنا۔ إِثْنَى إِثْنَاءَ الْعَظْمِ: ٹوٹی ہوئی ہڈی درست ہونا۔ إِسْتَوْشَى الْفَرَسُ: گھوڑے کو اُکسانا..... الْحَدِيثُ: بحث کرنا اور جمع کرنا..... الرَّجُلُ : مانگنا اور ہاتھ میں جو کچھ ہو اُسے نکال لینا الْمَعْدُنُ: تھوڑا سا سونا پایا جاتا۔ الْوَشْيُ: مہم۔ کپڑے کا نقش و نگار۔ منقش کپڑے۔ ج و شَاءَ. وَشَى الشَّيْفُ: تلوار کا جوہر۔ الْوَشَاءُ: اونٹوں کی کثرت۔ الْوَأَشِي: قا۔ چغل خور۔ بہت اولاد والا۔ یا بہت مویشی والا۔ جلاہ۔ ج و أَشْوَوْنَ وَوُشَاءَ الْوُشَاءَ: سونے کا سکہ بنانے والا۔ الْوَشَاءُ وَاشِي: کا اسم مبالغہ۔ منقش کپڑے پینچنے والا۔ الْيَشِيَّةُ: مہم۔ داغ۔ نشان۔ علامت ج شیات۔ الْأَشِيَّةُ: داغوں والا۔ کہا جاتا ہے "ثَمُورٌ أَشِيَّةٌ" جیسے کہا جاتا ہے "فَرَسٌ أَبْلَقٌ" اور	نہت کے لئے وَشَوِيٌّ. وَصَّ يُوَصِّ وَصًا وَصًّا: مضبوط بنانا۔ وَصَّصَتْ تَوْصِيصًا الْمَرْأَةُ: منہ کا پردہ تنگ کرنا۔ وَصِي يُوَصِّ وَصًا وَصًّا: کپڑا میلا ہونا۔ وَصَبٌ يَصِبُ وَصُونًا: ہمیشہ رہنا۔ ثابت ہونا..... الدَّيْنُ: قرض واجب ہونا..... عَلِيٌّ الْأَمْسِرُ: مداومت کرنا۔ خوش اسلوبی سے کرنا۔ وَصَبٌ يُوَصِّبُ وَصْبًا وَوَصَّبٌ وَتَوَصَّبٌ: مریض ہونا۔ صفت وَوَصَّبٌ وَوَصَّبِيٌّ وَوَصَابٌ. تَوَصَّبٌ: درد محسوس کرنا۔ أَوْصَبٌ: مریض ہونا..... اللَّهُ فُلَانًا: مریض کرنا..... الرَّجُلُ: بیمار اولاد والا ہونا..... الشَّيْبُ: ہمیشہ رہنا۔ ثابت ہونا..... وَوَاصِبٌ: ہمیشگی مداومت کرنا۔ الْوَرَصُ: بیماری۔ دائمی درد۔ جسم کی لاغری اور بھی سستی اور تنگن کے لئے بھی بولا جاتا ہے الوَرَصُ: بیمار اور سہا بے درد میان کا حصہ۔ ج اَوْصَافُ. الْوَأِصِبُ: قا۔ دائم۔ السَّوَابِيَّةُ: واصب: کاموث۔ بہت دور تک پھیلنا ہوا بیابان۔ المُوصَّبُ: بہت دردوں والا۔ وَصَدٌ يَصِدُ وَصْدًا: ثابت ہونا۔ بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا..... الْقُوبُ: کپڑا اٹھانا۔ وَصَدٌ الْقُوبُ: کپڑا اٹھانا..... الْكَلْبُ بِالصَّيْدِ : کتے کو شکار پر بھراگانا..... فُلَانًا: خوف دلانا۔ أَوْصَدَ الْبَابَ: دروازہ بند کرنا..... الْقِدْرُ: بانڈی ڈھالنا..... عَلِيٌّ فُلَانٌ: تنگی ڈالنا الْكَلْبُ بِالصَّيْدِ: کتے کو شکار پر اُکسانا۔ بھڑکانا..... وَاسْتَوْصَدَ: پہاڑ میں مویشیوں کے لئے باڑہ بنانا۔ الْوَصَادُ: جلاہ۔ الْوَصَادُ: أَوْصَدَ الْبَابَ وَأَوْصَدَ الْقِدْرَ: کا اسم بمعنی بندش و ڈھکائی۔
--	--

گاتا۔ جلدی سے باندھنا۔ وَصَمَّ الرَّجُلُ: سستی و کاہلی اور اعصاب شکنی والا ہونا..... فَلَانَا: دردناک کرنا۔ ست و کاہل کرنا۔ وَصَّتِ الْحُمَّى فَلَانَا : دردناک کرنا۔ تَوَصَّمَ: تکلیف اٹھانا۔ تَوَاصَمَ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو عیب لگانا۔ الْوَصْمُ: مرض۔ الْوَصْمُ: مص۔ لکڑی کی گانٹھ۔ عیب و عار۔ الْوَصْمَةُ: عیب و عار۔ جسم کی سستی۔ الْوَصِيمُ: خنصر اور بنصر کے درمیان کشادگی۔ الْمَوْصُومُ: مفتح۔ کہا جاتا ہے "زَجَلُ مَوْصُومِ الْحَسْبِ" عیب دار مرد۔ وَصُوصَ عَيْنُهُ: نظر جمانے کے لئے آنکھ چھوٹی کرنا۔ پردے کے سوراخ سے دیکھنا الْجَرْدُ: ملے کا آنکھیں کھولنا۔ وَصُوصَتِ الْجَارِيَةُ: برقع سے سوائے آنکھوں کے کچھ دکھائی نہ دینا۔ الْوُصُوصُ وَالْوُصُوصُ: آنکھ کے برابر پردہ وغیرہ کا سوراخ۔ چھوٹا برقع ج وَصَادِصٌ وَصَاوِئِصٌ. الوُصَاوِصُ: سطح زمین کے پتھر۔ وَصِي يَصِي وَصِيًا: عالی مرتبہ ہونے کے بعد خیس ہونا..... الشُّبِي: بہ: منتقل ہونا..... الشُّبِي بَاخْرًا: ملانا..... وَصِيَا وَوَصِيَانَةً الْمَكَانُ: متصل نباتات والی ہونا..... النَّبْتُ : بہت ہونا اور متصل متصل ہونا۔ وَصِي تَوْصِيَةً فَلَانَا بِكَذَا: محسن کام کا عہد لینا۔ کسی کام کا اشارہ کرنا..... الْيَدُ: بالصلاة حکم دینا۔ کہا جاتا ہے "وَصَاةُ بِلْفَلَانِ أَنْ يُحْسِنَ إِلَيْهِ" فلاں کے ساتھ "ا" کو احسان کرنے کا حکم دیا۔ "وَوَصِيْتُ لَكُ بَعْدَ مَوْتِي" میں نے اس کو اپنے مرنے کے بعد مالک بنانا۔ وَصِي إِلَى فُلَانٍ مَرْنَةً كُ بعد اپنے مال و اولاد پر وصی بنانا۔ فَلَانَا بِوَلَدِهِ: مہربان بنانا۔	اور باء اور کہا جاتا ہے "هَذَا وَصَلٌ هَذَا" یہ اس کے مثل ہے۔ الْوُضَلُ وَالْوُضَلُ: ہر عضو علیحدہ علیحدہ ج اُضْوَالُ. الْوُضَلَةُ: مص۔ تعلق۔ دو چیزوں کو ملانے والی چیز۔ ہم سفر جماعت۔ دُور کی زمین۔ ج وَضَلُ. الْمِصَلَةُ: مص۔ عطیہ۔ احسان۔ انعام۔ ج صِلَاتُ. اتِّصَالَ التَّيْرَيْنِ: سورج چاند کا ملنا اور آنے سامنے ہونا۔ الْوُضُولُ: بہت میل ملاپ رکھنے والا۔ بہت دینے والا۔ الْوُضُولُ: مص..... عِنْدَ الْمُؤَلِّدِينَ: رسید۔ ج وَضُولَاتُ. وَصِيْلُ الرَّجُلِ: ہمیشہ ساتھ رہنے والا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا رَجُلٌ وَصِيْلٌ هَذَا" یہ اس کے مثل ہے۔ الْوُصَيْلَةُ: وَصِيْلُ: کاموث۔ عمارت۔ ارزائی۔ کسی چیز کو جوڑنے والی چیز۔ ہم سفر گروہ۔ دھاگے کا گولا۔ دور کی کشادہ زمین ج وَضَائِلُ. الوُصَيْلَةُ: بین کا ایک دھاری وار کپڑا ج وَصِيْلٌ وَوَضَائِلُ الوُصَيْلَةُ : اُونٹن جو لگا تار دس سال تک بچے دے۔ بکری جو سات سال تک جڑواں مادہ بچے دے۔ الْمَوْصِلُ: ملنے کی جگہ۔ رسی وغیرہ کی گرہ۔ موت مَوْصِلُ النَّجِيِّ: چوڑا اور اُن کا درمیانی حصہ۔ الْمَوْصِلُ: عراق اور جزیرہ کے درمیان ایک شہر کا نام۔ الْمَوْصِلَانُ: شہر موصل اور جزیرہ۔ الْمَوْصُولُ: مفتح۔ بھڑکی شکل کا ایک جانور۔ الْمُنْوَصِلُ: فا۔ الْمُنْوَصِلَةُ مِنَ النِّسَاءِ : اپنے بال میں دوسرے کے بال کو لگانے والی عورت۔ وَصَمَّ يَصِمُّ وَصَمًا الْعُوْدَةُ أَوْ الْعُظْمُ: لکڑی یا ہڈی میں شکاف ڈالنا..... الشُّبِي: عیب	جائے۔ الْصِفَاتِيَّةُ: ایک فرقہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتا ہے۔ واحد صِفَاتِيٌّ. الْوُصْفِيَّةُ: صفت کی حالت۔ الْوُصَيْفُ: لڑکا جو خدمت کرنے کے قابل ہو گیا ہو ج وَصْفَاءُ مَوْتٌ وَصَيْفَةٌ ج وَصَائِفُ. الْوُصَافُ: وصف شناس۔ طیب۔ وَصَلٌ يَصِلُ وَصَلًا وَصِلَةٌ وَصَلَةُ الشُّبِي بِالشُّبِي: جوڑنا۔ جمع کرنا..... هُ بِالْبَيْتِ دِينَارٌ: احسان کرنا..... وَصَلًا وَصِلَةً فَلَانَا : تعلق رکھنا..... زَيْدًا: نیکی کرنا۔ دینا۔ وَصَلُ رَجْمَةً: رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا۔ مہربانی کرنا۔ نری برتن..... وَضُولًا وَوُضَلَةً وَصِلَةً إِلَى الْمَكَانِ: پہنچنا۔ کہا جاتا ہے "وَصَلِيْبِي الْخَيْرُ وَوَصَلُ الشُّبِي الْخَيْرُ" مجھے خیر پہنچی "وَصَرْبُهُ ضَرْبَةٌ لَا تَوْصِلُ" اس نے ایسی مار ماری کہ جس کا علاج نہیں۔ وَاصِلَةٌ وَصَالًا وَوُاصِلَةٌ: تعلق رکھنا وَاصِلُ الشُّبِي وَفِي الشُّبِي: پہنچنی کرنا۔ لگا تار کرنا۔ وَصَلُ الشُّبِي بِالشُّبِي: جوڑنا..... وَأُوصِلُ فَلَانًا إِلَى كَذَا: پہنچانا۔ تَوْصِلُ إِلَى كَذَا: پہنچانا..... إِلَى فُلَانٍ: پہنچنے کے لئے جیلہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "تَوْصِلُ إِلَيْهِ بِوُضَلَةٍ وَبَسَبٍ" اس نے اس کے پاس پہنچنے کے لئے تعلق اور سب کو جیلہ بنانا۔ تَوَاصَلَ الرَّجُلَانِ: ایک دوسرے سے تعلق رکھنا۔ اتَّصَلَ بِالشُّبِي: جڑنا..... إِلَيْهِ: پہنچنا..... بِي خَيْرٍ فُلَانٍ: جاننا..... فَلَانٌ بِالْوَزِيرِ: خدمت میں رہنا..... إِلَى بَيْتِ فُلَانٍ: منسوب ہونا۔ اِسْتَوْصَلَ: میل ملاپ ڈھونڈنا۔ الْوُضَلُ: مص۔ لَيْلَةُ الْوُضَلِ: قمری سینے کی آخری رات۔ حَزَفُ الْوُضَلِ عِنْدَ أَهْلِ الْقَوَاهِي: اہل عروص کی اصطلاح میں رومی مترجم کے بعد کے حروف واؤ۔ یا اور الف
--	---	---

أَوْصَى ابْنَهُ فَلَمَّا بَكَدَا: کسی کام کا عہد لینا۔ حکم دینا..... لَمْ يَكْذَبَا: کسی کے لئے کسی چیز کی وصیت کرنا..... إِلَيْهِ: وصیت جاری کرنے والا مقرر کرنا۔

وَأَصَى الْبَلَدُ الْبَلَدُ: ایک شہر کا دوسرے شہر کے متصل ہونا۔

تَوَاصَى تَوَاصِيَا الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو وصیت کرنا۔

اسْتَوْصَى اسْتِصْيَاءً بِفُلَانٍ: وصیت کو قبول کرنا۔

الْوَصِيَّةُ ابْنِصَاءٌ: کا اسم ہے جس چیز کی وصیت کی جائے اس پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے "هَلِدِهِ وَصِيَّتُهُ" یہ اس کی

وصیت ہے وَجْوَاصِيَا وَصَايَا اللّٰهِ: اللہ تعالیٰ کے احکام جو اس نے اپنے بندوں پر واجب کئے ہیں۔ الوصية: کھجور کی ٹہنی جس سے گٹھا باندھتے ہیں۔ وَجْوَصِيٌّ:

الْوَصَاةُ وَجْوَصِيَّةٌ وَالْوَصَايَةُ وَالْوَصَايَةُ: وصیت کھجور کی ٹہنی جس سے گٹھا باندھتے ہیں۔

السَّوْصِيٌّ (مذکورہ مؤنث) وصیت کرنے والا۔ جس کو وصیت کی جائے۔ وَجْوَصِيَّةٌ:

السَّوْصِيَّةُ: بچیدہ گھاس۔ اَرْوَصٌ وَاصِيَّةٌ:

بچیدہ گھاس والی زمین۔ وَصْوٌ يَوْصُوٌّ وَوُصْوَةٌ اَوْ وُصَاةٌ الشَّيْءِ:

پاکیزہ و خوبصورت ہونا۔ وَصَاةٌ يَوْصُوَةٌ وَوُصَاةٌ: پاکیزگی و خوب روئی میں غالب ہونا۔

وَصَاةٌ تَوْصِيَّةٌ بِالْمَاءِ: پاکیزہ کرنا۔ وَوُصَاةٌ وَوُصَاةٌ: پاکیزگی و خوبصورتی میں مقابلہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "وَاصَاهُ فَوْصَاةٌ" اس

نے اس سے پاکیزگی و خوبصورتی میں مقابلہ کیا اور غالب رہا۔

تَوَاصَى بِالْمَاءِ لِلصَّلَاةِ: وضو کرنا..... الْغَلَامُ وَالْجَارِيَّةُ: بالغ ہونا۔

الْوُصْوَةُ: وضو کا پانی۔

الْوُصِيَّةُ وَجْوَصِيَّةٌ وَالْوُصَاةُ وَجْوَصِيَّةٌ وَالْوُصَاةُ وَجْوَصِيَّةٌ: پاکیزہ و خوبصورت۔ الْوُصَاةُ: زیادہ خوبصورت و پاکیزہ۔

السَّمِيضَةُ وَالْجَمِيضَةُ: وضو کرنے کی جگہ۔ لونا۔

السَّمُوْصَاةُ: وضو کرنے کی جگہ۔ پانچاند کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔

وَوضِحٌ يَضِخُ ضِخَةً وَوضِحَةٌ وَوضِحَةٌ وَوضِحَةٌ وَوضِحَةٌ: وضو کرنے کی جگہ۔ پانچاند کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔

وَوضِحٌ يَوْضِخُ وَوضِخًا: برس کے داغوں والا ہونا۔

أَوْضِحُ الْأَمْرِ: ظاہر ہونا۔ واضح ہونا.....

الْأَمْرُ: ظاہر کرنا۔ واضح کرنا۔ أَوْضَحْتِ الشَّجْعَةَ فِي الرُّؤْسِ: زخم کا ہڈی کو ظاہر کر دینا۔ أَوْضِحْ فِي رَأْسِهِ: زخم کرنا۔ کہا جاتا

ہے "مِنْ أَيْنِ أَوْضَحْتَ" تم کہاں سے آئے۔

وَوضِحُ الْأَمْرِ: واضح کرنا۔ ظاہر کرنا۔ اسْتَوْضِحَ اسْتِصْحَاخًا عَنِ الْأَمْرِ: بحث کرنا

..... هُ الْأَمْرُ اَوْ الْكَلَامُ: وضاحت کرنا..... الشَّيْءُ وَعَنِ الشَّيْءِ: آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر دیکھنا..... الشَّمْسُ: نگاہ تلک کر کے گھورنا۔

الْوُوضِحُ: مہس۔ روشنی و سپیدی صحیح۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ فِي وَوضِحِ الضُّبْحِ" وہ سفیدی صحیح کے وقت آیا۔ الووضيح: چاندنی۔ گھوڑے کی پیشانی یا ٹانگوں کی سپیدی۔ بڑھاپے کی

سپیدی۔ برس کی سپیدی کھراور ہم۔ کہا جاتا ہے "فَوَاهِمٌ وَوضِحٌ" مؤنث یا شنیہ جمع نہیں لاتے جیسے "أَمْرَةٌ صَوْمٌ" میں مؤنث یا شنیہ جمع نہیں لاتے۔ الووضيح: دودھ۔

چھوٹی چھوٹی گھاس۔ چاندی کا زیور۔ پازیب۔ وَوضِحٌ الطَّرِيقِ: شاہراہ۔ وَوضِحُ الْقَدَمِ: تلوے کی سپیدی۔

أَوْضَاخٌ مِنَ النَّاسِ: مختلف قبائل کی جماعتیں (اس کے لئے واحد نہیں)

الْوُوضِحَةُ: گدھے۔

الْوُوضِحُ: پاک صاف ہونا۔

الْوُوضِحَةُ: سفیدی بہت زیادہ نہ ہونے کی وضاحت: واضح کرنا۔

الْوُوضِحَةُ: سفید رنگ والا۔ خوبصورت چہرہ والا۔ بہت مکرانے والا۔ دن۔ السَّنْبُ: الووضيح: پاک صاف ہونا۔ بگھڑا۔ الووضيح: سب کی نماز۔

الْوُوضِحَةُ: مویشی۔ وَوضِحٌ وَالْوُوضِحَةُ: سفید رنگ والا۔ شاہراہ پر چلنے والا۔ سفید اونٹ جس کی سفیدی بہت زیادہ نہ ہو۔ وَوضِحٌ وَوضِحًا: ڈول کو پانی سے آدھا بھرنے۔

أَوْضِحُ الدَّلْوِ: ڈول کو پانی سے آدھا بھرنے۔ أَوْضِحَتِ البُيُوتُ: کنوئیں کا کم پانی والا ہونا۔ أَوْضِحٌ بالدَّلْوِ: کم پانی کھینچنا۔ وَوضِحُهُ وَوضِحًا: پانی کھینچنے یا دوڑنے یا چلنے میں مقابلہ کرنا۔ تَوَاضَحَ الْقَوْمُ: پانی کھینچنے یا دوڑنے یا چلنے میں مقابلہ کرنا۔ الووضيح: پانی جو نصف ڈول تک ہو۔ پانی کھینچنے کی چیز۔ وَوضِحٌ وَوضِحًا: میلا کھینچا ہونا۔ چکناہٹ سے میلا ہونا۔ صفت مذکورہ وَوضِحٌ صفت مؤنث وَوضِحَةٌ وَوضِحَةٌ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ وَوضِحٌ الْأَخْلَاقِ وَوضِحٌ أَخْلَاقُهُ وَوضِحٌ" فلاں گندے اخلاق والا ہے۔ وَوضِحَةٌ: میلا کھینچا کرنا۔ کہا جاتا ہے "كَمَانٌ نَقِيٌّ الْعُرْضُ فَوْضِرَةٌ بِالذَّنَاءِ" وہ پاکیزہ آبرو والا تھا اور دعات سے اس نے میلا کر دیا۔ الووضيح: مہس۔ چکناہٹ کی وجہ سے میل

چیل پيال وغيره کا دھون۔ پيالے میں کھانے کا اثر۔ ج اَوْضَار۔

الْوَضْرَى: دبر (..... وَالْوَضْرَاءُ) پہاڑ سے باہر نکلی ہوئی چٹان۔

وَضَعَهُ يَضَعُهُ وَضْعًا: کمینہ بنانا۔ ذلیل کرنا۔ وَضَعَ عُنُقَهُ: گردن پر مارنا..... الْحَدِيثُ: بات گھڑنا..... الْكِتَابُ: تالیف کرنا۔

السَّلَاحُ فِي الْعَدُوِّ: مقاتلہ کرنا..... يَذُّهُ عَنْ فُلَانٍ: روکنا..... الْجَنَابَةُ عَنْ فُلَانٍ: ناپاکی کو دور کرنا..... عَصَاةٌ: اقامت کرنا۔

وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ حِمَارَهَا: بے اور ضمنی کے ہونا۔ صفت و اِضْع. وَضَعَ الشَّيْءُ بَيْنَ يَدَيْهِ: سامنے چھوڑ دینا..... يَذُّهُ فِي الطَّغَامِ: کھانا..... الْحَزْبُ: ساقط کرنا۔

وَضَعَ يَضَعُ وَضْعًا وَمَوْضِعًا وَمَوْضِعًا الشَّيْءُ: رکھنا..... الشَّيْءُ مِنْ يَدِهِ: گرانہ..... مِنْ فُلَانٍ: مرتبہ سے گھانا..... عَنْ غَرِيْبِهِ: قرض دار سے کچھ چھوڑ دینا..... وَضْعًا وَمَوْضِعًا: البعير: سر بھکا کر تیز چلانا۔

وَضَعَ يَضَعُ وَضْعًا وَضْعَةً وَضِعَةً وَمَوْضِعًا نَفْسَهُ: اپنے آپ کو ذلیل کرنا۔ وَضَعْتُ وَضْعًا وَضْعًا وَضْعًا وَضْعًا الْمَرْأَةُ حَمَلَهَا: جننا۔ صفت و اِضْع.

وَضَعَ يَضَعُ وَضْعًا وَضِعَةً وَمَوْضِعَةً فِي بَحَارَتِهِ: نقصان اٹھانا۔ صفت مَوْضِعٌ فِيهَا.

وَضَعَ يَضَعُ ضِعَةً وَضِعَةً وَمَوْضِعَةً لِيَتِمَّ هُوَا: دلی ہونا۔ خیس ہونا۔ وَضَعَ الشَّيْءُ: جوڑنا..... الْجَبَّةُ: روٹی بھر کر سینا۔ وَضَعَتِ النَّعَامَةُ بَيْضَهَا: شتر مرغ کا انڈوں کو تہہ رکھنا..... السَّرْحَلُ: ذلیل کرنا۔

أَوْضَعَ الْبَعِيرُ: اونٹ کا تیز دوڑنا..... الْبَعِيرُ: اونٹ کو تیز دوڑانا..... أَوْضَعَ فِي بَحَارَتِهِ: تجارت میں نقصان اٹھانا۔

وَاضَعَهُ وَضَاعًا وَمَوْضِعَةً: شرط لگانا۔

هُ فِي الْأَمْرِ: کسی معاملہ میں موافقت کرنا۔ وَاضَعَهُ الْبَيْعُ: بیع کو چھوڑنا۔ وَاضَعَهُ الرَّهَانُ: شرط باطل کرنا اور تم کہتے ہو "هَلْمْ أَوْاضِعْكَ الرَّهَانُ" یعنی آؤ تم مجھ کو اور میں تم کو اپنی رائے سے مطلع کروں۔

اتَّضَعَ: ذلیل ہونا۔ عاجز ہونا۔ لیتم ہونا۔ حسب میں کم رتبہ ہونا..... التَّبَعِيرُ زَاكِبَةٌ: اونٹ کے سر کو جھکا کر سوار ہونا۔

تَوَاضَعَ: ذلیل ہونا۔ عاجز ہونا۔ خاکسار ہونا۔ تَوَاضَعَتِ الْأَرْضُ: پست ہونا۔ تَوَاضَعَ الْقَوْمُ عَلَى كَذَا: متفق ہونا..... مَا بَيْنَنَا وَدُور هُوَا:

اِسْتَوْضَعَ اِسْتِضَاعًا مِنْهُ: گھانے کے لئے کہنا..... هُوَا فِي ذَيْبِهِ: قرض میں نرمی طلب کرنا۔

الْوَضْعُ: مصل۔ جلد۔ ج اَوْضَاع. الْمَوْضِعَةُ وَالْوَضْعَةُ: جگہ۔ مرکز۔

السَّوَابِعُ: فاء۔ امراةً و اِضْع: بے اور ضمنی کے عورت۔ نَاقَةٌ و اِضْع: ترش نباتات میں رہ کر چرنے والی اونٹنی۔

الْوَضِيعُ: خیس دلی امانت۔ کہا جاتا ہے "وَضَعْتُ عِنْدَهُ وَضِيعَةً" میں نے اس کے پاس امانت رکھی۔

الْوَضِيعَةُ: قیمت کی کمی امانت۔ ترش نباتات۔ عشر یا خراج وغیرہ جو بادشاہ وصول کرے۔ منہ بولا بیٹا۔ لشکر کی ایک جماعت جو کسی مقام پر مقرر کی جائے اور وہ جگہ نہ کرے۔ ایسی کتاب جس میں حکمت کی باتیں لکھی جائیں۔ ایک قسم کا کھانا جس میں گھیبوں کوٹ کر گھی ملا کر کھاتے ہیں ج

وَضَائِعُ الْمَوْضَاعِ: مسافروں کا اسباب۔ الْمَوْضِيعُ: مصل۔ کہا جاتا ہے "فِي كَلَامِهِ تَوْضِيعٌ" اس کے کلام میں زمانہ پن ہے۔ الْمَوْضِعُ وَالْمَوْضِعُ: مصل۔ رکھنے کی جگہ ج مَوَاضِع.

الْمَوْضِعَةُ: موضع میں ایک لخت ہے اور کہا جاتا ہے "لَهُ فِي قَلْبِي مَوْضِعَةٌ وَمَوْضِعَةٌ" مَوَاضِع.

وَضَنٌ يَضِنُّ وَضْنًا الشَّيْءُ: تہہ رکھنا۔ ایک کو دوسرے پر موڑنا۔ دگنا کرنا۔

اس کی میرے دل میں محبت ہے۔ الْمَوْضِعُ: مصل۔ توڑا ہوا۔ کھڑے کھڑے کیا ہوا۔

الْمَوْضُوعُ: مصل۔ مَوْضُوعُ الْعِلْمِ: جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے۔ جیسے علم طب میں جسم انسان مِنْ حَيْثُ الصَّحَّةِ وَالْمَرَضِ: موضوع الکلام: گفتگو کا مرکزی نقطہ جس پر کلام جاری ہو۔ ج مَوَاضِعُ وَمَوْضُوعَاتُ: الْأَحَادِيثُ الْمَوْضُوعَةُ: گھڑی ہوئی باتیں۔

وَضَفٌ يَضِيفُ وَضْفًا الْبَعِيرُ: اونٹ کا تیز چلنا۔ وَضَمٌ يَضِمُّ وَضْمًا اللَّحْمُ: گوشت کو تختہ پر رکھنا۔ وَضَمٌ يَضِمُّ وَضْمًا الْقَوْمُ: اکٹھا ہونا۔ قریب قریب ہونا۔ بَنُو فُلَانٍ عَلَيَّ يَبْنِي فُلَانٌ: فلاں کی اولاد فلاں فلاں کی اولاد کے پاس آئی۔

أَوْضَمٌ اِبْنَضًا اللَّحْمُ وَاللَّحْمُ: گوشت کو تختہ پر رکھنا..... الشَّجَرُ: ایک دوسرے کے اوپر کرنا۔ اِسْتَوْضَمَةُ اِسْتِضَاعًا: ظلم کرنا۔

الْوَضْمُ: گوشت کاٹنے کا قصائی کا تختہ۔ ج اَوْضَامٌ و اَوْضَمَةٌ کہا جاتا ہے "نَرَكْتُهُمْ لِحْمًا عَلَيَّ وَضْمًا" اس نے ان پر مصائب ڈال کر ذلیل کر دیا اور دردمند بنا دیا۔

الْوَضْمُ: بکڑی یا چٹائی جس پر گوشت کو مٹی سے بچانے کے لئے رکھا جائے۔ دسر خوان۔

السَّوَضِيمُ: انگشت شہادت اور بصر کے درمیان کا حصہ۔

الْوَضِيمَةُ: میت کا کھانا..... وَالْوَضْمَةُ: دوسو کے قریب لوگوں کی جماعت۔

الْمِضْمَةُ: گوشت کے تختہ کے رکھنے کی جگہ ج مَوَاضِع.

وَضَنٌ يَضِنُّ وَضْنًا الشَّيْءُ: تہہ رکھنا۔ ایک کو دوسرے پر موڑنا۔ دگنا کرنا۔

النَّسْعُ: جننا۔
 تَوَضَّنَ لَهُ: ذليل و عاجز ہونا۔ محبوب ہونا۔
 اِتَّضَنَ بِهِ: متصل ہونا۔
 الوَضِيسُ: تہ بتہ کیا ہوا۔ چوڑا استرا۔ بال یا
 تسموں سے بنا ہوا۔ اور بقول بعض ہودہ کا
 ننگ ج و ضَن۔
 المَوْضُونَةُ: باریک بنی ہوئی زرہ یا جواہر
 سے بنی ہوئی زرہ۔
 المَبِیضَةُ: کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ٹوکرا۔ ج
 مواضین۔
 المَبِیضَانَةُ: زمبیل۔ ج مواضین۔
 وَطًا يُوَطُّ وَطًا الوَطُوَاطُ: چگا ڈڑکا آواز
 کرنا۔۔۔۔۔ المَحْمَلُ: چڑچڑانا۔
 وَطِي يَطُّ وَطًا الشَّيْ بِرَجْلِهِ: پیر سے روندنا
 ۔۔۔۔۔ الفَرَسُ: گھوڑے پر سوار ہونا۔۔۔۔۔ اَرْضُ
 عَذْوَةٍ: دشمن کے ملک میں داخل ہونا۔
 وَطًا يَطُّ وَطًا الشَّيْ: تیار کرنا۔ آسان
 کرنا۔
 وَطُو يُوَطُّ وَطَاءً وَطُوَاءً وَطُوَاءً: نرم
 ہونا۔
 وَطًا تَوَطَّنَةُ الشَّيْ بِرَجْلِهِ: پیر سے روندنا
 ۔۔۔۔۔ السِّفْرَاشُ: بچھونا نرم کرنا۔۔۔۔۔ الأَمْرُ:
 درست کرنا۔ آسان کرنا۔۔۔۔۔ المَوْضِعُ: نرم
 بنانا۔۔۔۔۔ الشِّعْرُ وَفِيهِ: لفظاً و معنیاً قافیہ
 دہرانا۔
 أَوْطًا يَنْطَاءُ فَلَانًا الْأَرْضُ وَبِالْأَرْضِ:
 روندنا۔ اَوْطَابُ: فرسہ۔ سوار کرنا۔
 أَوْطَاءٌ عَلَى الْأَمْرِ: موافقت کرنا۔ اَوْطًا
 الشِّعْرُ وَفِي الشِّعْرِ: لفظاً و معنی قافیہ دہرانا۔
 وَأَطًا مَوَاطِنَةً فَلَانًا عَلَى الْأَمْرِ: موافقت
 کرنا۔۔۔۔۔ فِي الشِّعْرِ: لفظاً و معنی قافیہ
 دہرانا۔
 تَوَطًّا فَلَانًا بِرَجْلِهِ: کپلنا۔ روندنا۔۔۔۔۔ عَلَى
 الْأَمْرِ: موافقت کرنا۔۔۔۔۔ الْقَوْمُ عَلَى الْأَمْرِ:
 ایک دوسرے کے موافق ہونا۔
 اِنطًا اِنطَاءً وَ اِنطًا اِنطَاءً الشَّيْ: آسان
 ہونا۔ تیار ہونا۔۔۔۔۔ الْأَمْرُ: درست ہونا اور

انتہا کو پہنچنا۔
 اِسْتَوَطَّ الشَّيْ: نرم پانا۔
 الوَطُوُ: مہم۔۔۔۔۔ (و الوَطَاءُ) پست و نرم
 زمین۔ الوَطَاءُ وَ الوَطَاءُ: فرش۔
 الوَطَاةُ وَ طَا: کا اسم مرتہ۔ قدم کی جگہ۔ بھینچ یا
 دباؤ۔
 الوَطَاءَةُ وَ الوَطُوَاءَةُ: مہم۔ نرمی آسانی۔
 کہا جاتا ہے "أَنَا أَحِبُّ وَطَاءَةَ الْعَيْشِ"
 میں خوش عیسیٰ کو پسند کرتا ہوں۔
 الوَاطِنَةُ وَ الوَطَاةُ: راستہ میں گزرنے والے
 لوگ۔ الوَاطِنَةُ: گرمی ہوئی کھجوریں۔
 الوَاطِنِيُّ: پست۔ نرم آسان۔ ہموار۔ روندنا
 ہوا۔
 الوَاطِنَةُ: واطینی: کامونٹ۔ کھجور جس کی
 گٹھلی نکال کر دودھ میں گوندھیں۔ نرم
 عصيدہ (آٹا گھی ملا ہوا ایک کھانا) شکر
 پتیر ملا ہوا۔
 المَوْطِيُّ وَ المَوْطِيُّ: قدم کی جگہ۔
 المِيطًا: پست و نرم زمین۔
 الشُّوَطَا: مٹح۔ کہا جاتا ہے "زَجَلُ مَوْطًا
 الاكثافِ" نرم اخلاق والا افاض مہمان نواز
 مرد "وَهُوَ مَوْطًا الْعَقِبُ" وہ ایسا شخص ہے
 جس کے پیچھے بہت لوگ چلتے ہیں۔
 السُّوَطَبُ: دودھ کی مشک ج اَوْطَبُ
 وِوَطَابُ وَ اَوْطَابُ وَ نَجَّ اَوْطَبُ کہا جاتا
 ہے صفوت و طابہ: یعنی مرگیا یا تل کیا گیا۔
 الوَطْبُ: بڑی پستان۔ سخت دل والا مرد۔
 الوَطْبَاءُ: بڑی پستان والی عورت۔
 وَطْحَةٌ يَطْحُهُ وَطْحًا وَطْحَةً: ہاتھوں سے
 زور سے ہٹانا۔
 تَوَاطَحَ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کے ساتھ
 برائی یا جنگ کرنا۔ تَوَاطَحَتِ الْاِبِلُ عَلَى
 الْحَوْضِ: اونٹوں کا حوض پر ہجوم کرنا۔
 الوَطْحُ: مہم۔ کھریا چنگل میں لگی ہوئی مٹی
 وغیرہ۔
 وَطَدَ يَطِدُ وَطْدًا الشَّيْ: مضبوط کرنا۔
 پائیدار کرنا۔ بوجھل کرنا۔ صفت مفعولی

وَطِيدٌ وَ مَوْطُوْدٌ۔۔۔۔۔ الْأَرْضُ: سخت ہونے
 کے لئے کوٹنا۔۔۔۔۔ الشَّيْ إِلَيْهِ: ملانا۔۔۔۔۔ لَهُ
 مَنزِلَةٌ: تیار کرنا۔۔۔۔۔ إِلَى الْأَرْضِ: جھکتا
 دبانا۔۔۔۔۔ الشَّيْ: ثابت و قائم ہونا۔ چلنا۔۔۔۔۔
 الصَّخْرُ عَلَى الْغَارِ: تہ بتر کھنا۔
 وَطَدَ الشَّيْ: بمعنی وَطَدَهُ۔
 تَسَوَّطَدَ: مضبوط و ثابت ہونا۔ کہا جاتا ہے
 "وَطَدَهُ فَسَوَّطَدَ" اس نے اس کو مضبوط کیا
 پس وہ ہو گیا "وَتَوَطَّدَتْ لَهُ عِنْدَهُمْ مَنزِلَةٌ"
 ان کے نزدیک اس کا مرتبہ قائم ہو گیا۔
 الوَاطِدُ وَ الوَطِيدُ وَ المَوْطُوْدُ: مضبوط و
 ثابت۔
 الْأَوْطَادُ: بہت سے پہاڑ۔
 الوَاطِيْدَةُ: عمارت کی بنیاد۔ پایہ و گیدان ج
 وَطَائِدُ کہا جاتا ہے "أَنْتَ مِنْ وَطَائِدِ
 الْحَقِّ" تو سچائی کا ستون ہے۔ "وَلَهُ عِنْدَهُ
 وَطِيْدَةٌ" اس کے نزدیک اس کا مرتبہ ہے۔
 المِيطِيْدَةُ: درمٹ۔
 المَسْوِاطِدُ: مضبوط۔ جما ہوا۔ سخت۔ ایک
 دوسرے کے پیچھے۔
 الوَطْرُ: حاجت۔ مطلوب۔ ج اَوْطَارُ کہا
 جاتا ہے "قَطِضِي مِنْهُ وَطْرَهُ وَ اَوْطَارَهُ" اس
 نے اپنی حاجت پوری کر لی۔
 وَطَسَهُ يَطْسُهُ وَطَسًا: چرمی موزہ وغیرہ
 سے ٹھوکر مارنا۔۔۔۔۔ الشَّيْ: توڑنا۔ کوٹنا۔
 تَوَاطَسَ السُّوَجُ: موجوں کا ہا ہم ٹکرانا۔
 الْقَوْمُ عَلَيَّ: بھیر کرنا۔
 الوَطَّاسُ: چرواہا۔
 السُّوَيْطِيسُ: تنور اور جو اس کے مشابہ ہو۔
 میدان جنگ۔ کہا جاتا ہے حِمِي السُّوَيْطِيسُ:
 یعنی جنگ سخت ہو گئی۔ ج اَوْطَسَةٌ
 وَوَطْسٌ۔
 الوَاطِسَةُ: معاملہ کی سختی۔
 وَطَسَهُ يَطْسُهُ وَطَسًا: مارنا۔۔۔۔۔ عَنْ
 فُلَانٍ: ہٹانا۔ دور کرنا۔۔۔۔۔ الْحَدِيثُ او
 الْعَجَبُ: کچھ بیان کرنا۔۔۔۔۔ الْكَلَامُ: وضاحت
 نہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "مَآوِطَسُ لَنَا بَشِي"

اس نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔

وَوَطَّشَ الْحَدِيثُ: کچھ بیان کرنا..... لَه: گفتگو یا رائے یا عمل کو تیار کرنا..... ه: تھوڑا سا دینا..... الْقَوْمُ عَنْهُ: ہٹانا..... فِيهِ: اثر کرنا۔ کہا جاتا ہے "ضَرَبُوهُ فَمَا وَطَّشَ إِلَيْهِمْ" لوگوں نے اسے مارا اور اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ سَأَلُوهُ فَمَا وَطَّشَ إِلَيْهِمْ بَشِي: لوگوں نے اس سے مانگا اور اس نے کچھ نہیں دیا۔

وَوَطَّفَ يَوَطِّفُ وَطَفًا: گھسی ابروؤں اور لمبی پلکوں والا ہونا۔ صفت أَوَطَّفَ مَوْنَتْ وَطَفَاءَ جَ وَطَّفَ: وَطَّفَ الْمَطْرُ: زور سے برسا۔

وَوَطَّفَ يَطْفُفُ وَطَفًا: شکار وغیرہ کو بھگانا اور اس کے پیچھے پڑنا۔

السَّوْطُفُ: مٹس اور کہا جاتا ہے "فِي السَّحَابَةِ وَطْفٌ: جبکہ بادل لٹکے ہوئے ہوں۔

ظِلَامٌ أَوْطَفُ: سخت تاریکی۔ سَحَابٌ أَوْطَفُ: زمین سے قریب بادل۔ عَامٌ أَوْطَفُ: فراخ سالی۔ عَيْشٌ أَوْطَفُ: خوشحال زندگی۔ سَحَابَةٌ وَطَفَاءٌ: پانی سے بوجھل ہو کر لٹکا ہوا بادل۔

الوَطْفَةُ: تھوڑے بال۔

الوَطَاقُ: خیر۔ جِ وَطَاقَاتُ: وَطْمُهُ يَطْمُهُ وَطْمًا: روندنا۔ وَطْمَ الْبَيْتِ: پردہ لگانا۔

وَطْمٌ يَوَطِّمُ وَطْمًا وَوَطْمَ الرَّجُلِ: پانچخانہ روکنا۔

وَظَنٌ يَظُنُّ وَظْنًا وَ أَوْظَنَ يُظِنُّ بِالْمَمْكَانِ: اقامت کرنا۔

وَظَنٌ وَ أَوْظَنَ وَتَوَظَّنَ وَاتَّظَنَ وَاسْتَوْظَنَ الْبَلَدَ: وطن بنانا۔ وَظَنَ نَفْسَهُ عَلَى الْأَمْرِ وَبِالْأَمْرِ: آمادہ کرنا۔ براہیختہ کرنا۔ تَوَظَّنْتُ نَفْسَهُ عَلَى كَذَا: اس کا نفس فلاں پر براہیختہ کیا گیا۔

وَظَنَهُ عَلَى الْأَمْرِ: کسی کے ساتھ کوئی کام

کرنے کو دل میں پوشیدہ کرنا۔

الْوَطْنُ: جائے سکونت۔ اقامت گاہ۔ مَوْلِيٌّ بَانِدُ هُنَى كِي جَدِّ: جِ أَوْطَانُ: جِ

السَّمَوْتِ: وطن۔ میدان جنگ۔ جِ مَوَاطِنُ: جِ

السَّمِيْطَانُ: غایت۔ انتہا۔ گھوڑ دوڑ کے میدان میں جہاں سے گھوڑے چھوڑے جائیں اور آخری جگہ کو مِسَاءٌ وَمِسَاءٌ کہتے ہیں۔

وَطَوَطُ: کمزور ہونا۔ جلدی بولنا۔ الوَطُوْطُ: چمکا ڈھ۔ ایک قسم کی پہاڑی ابا تیل جِ وَطَاوِطُ وَوَطَاوِطُ: الوَطُوْطُ: کمزور عقل والا آدمی۔ جلدی بولنے والا۔

الْوَطُوْاطَةُ: جلدی بولنے والی۔ جینے چلانے والی۔

وَطَى تَوَطَّى الشَّيْءُ: پست کرنا۔ مرتبہ گھٹانا۔

تَوَطَّى: پست ہونا۔ مرتبہ گھٹنا۔ وَطَأًا وَتَوَطَّأُ: میں ایک لغت ہے۔

وَظَبُّ يَظِبُّ وَظُونًا الْأَمْرُ وَعَلَى الْأَمْرِ: ہمیشگی کرنا۔ صفت (..... وَظَبًا) الشَّيْءُ: روندنا۔

وَظَبُّ مَوَاطِبَةٍ عَلَى الْأَمْرِ: مداومت کرنا۔ هُ عَلَى خِدْمَةِ فَلَانٍ: براہیختہ کرنا۔ اُ كَسَانًا: تَوَاطَبْتُ عَلَيْهِ الرِّيَاحُ: لگا تارپے درپے آتا۔

الْمِيْظَبُ: گول تیز پتھر۔ السَّمَوْتُوْبُ: مٹخ۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ مَسُوْتُوْبٌ": ایسا مرد جس کے مال پر بار بار تباہی آئی ہو۔

وَظَرٌ يُوْظَرُ وَظَرًا: موٹا وہ گوشت ہونا۔ صفت وَظَرٌ: وَظَفٌ يَظْفُفُ وَظْفًا الْبَيْعِ: پاؤں کی رتی چھوٹی کرنا۔ پندلی پر مارنا..... الْقَوْمُ: بیروی کرنا۔

..... الشَّيْءُ عَلَى نَفْسِهِ: لازم کرنا۔ مقرر کرنا۔

وَظَفٌ: روزینہ مقرر کرنا۔ وظیفہ مقرر کرنا۔

وَظَفٌ عَلَيْهِ عَمَلًا: کام مقرر کرنا۔ کہا جاتا ہے "وَظَفَ لَهُ الرِّزْقُ وَبِدَائِبِهِ الْعَلْفُ"

اس نے اس کے لئے روزی اور چوپائے کے لئے چارہ مقرر کیا اور وَظَفَ عَلَى الصَّبِيِّ كَلُّ يَوْمٍ حِفْظًا آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ: اس نے بچے پر ہر روز چند آیتیں یاد کرنے کے لئے مقرر کیں۔

وَظَفَهُ: موافقت کرنا۔ ہمیشہ ساتھ رہنا۔

اسْتَوْظَفَ الشَّيْءُ: پورا لے لینا۔ السَّوْظِيْفُ: گھوڑے یا اونٹ وغیرہ کی پندلی کا پتلا حصہ جِ وَظَفٌ وَأَوْظِفَةُ: السَّوْظِيْفُ: سخت زمین پر چلنے پر قادر مرد۔ کہا جاتا ہے "جَسَاءٌ بَ الْإِبِلِ عَلَى وَظِيْفٍ وَاجِدٌ"

اُونٹ ایک دوسرے کے پیچھے گویا کہ ایک قطار میں آئے۔

السَّوْظِيْفَةُ: محل معین۔ روزینہ۔ رزق وغیرہ عہد و شرط جِ وَظَائِفٌ وَوُظْفٌ اور بسا اوقات منصب اور خدمت کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے "لِللَّذُنِيَا وَظَائِفٌ" یعنی دنیا بدلتی سداقتی رہتی ہے۔

السَّوْعُ: گیدڑ۔ گیدڑ کی آواز کی نقل۔ بچے کے رونے کی آواز۔

وَعَبٌ يَعْبُ وَعَبًا الشَّيْءُ: سب لے لینا۔ أَوْعَبُ اِبْتِعَابًا الشَّيْءُ: سب لے لینا۔ جمع کرنا..... الْأَمْرُ: فارغ ہونا..... السَّرْجُلُ: پوری زبان کاٹ لینا..... الشَّيْءُ فِي الشَّيْءِ: پورا داخل کر دینا..... فِي مَالِهِ: فضول خرچی کرنا..... الْقَوْمُ: پوری قوم کا نکل جانا۔

اسْتَوْعَبَ اسْتِيعَابًا الشَّيْءُ: سب لے لینا۔ جُزْءٌ أَوْ كَثِيْرًا..... الْحَدِيثُ: پوری بات حاصل کرنا..... السَّمْكَانُ او الْوِعَاءُ الشَّيْءُ: گھنچا ش ہونا۔

الْوَعْبُ: کشادہ راست۔ جِ وَعَابٌ: السَّوْعِيْبُ: کشادہ۔ کہا جاتا ہے "بَيْتٌ وَعَيْبٌ وَوِعَاءٌ وَعَيْبٌ" فراخ مکان۔

فِرَاحٌ بَرْتَنُ: فراخ برتن۔

..... الشَّيْءُ عَلَى نَفْسِهِ: لازم کرنا۔ مقرر کرنا۔

..... الشَّيْءُ عَلَى نَفْسِهِ: لازم کرنا۔ مقرر کرنا۔

..... الشَّيْءُ عَلَى نَفْسِهِ: لازم کرنا۔ مقرر کرنا۔

..... الشَّيْءُ عَلَى نَفْسِهِ: لازم کرنا۔ مقرر کرنا۔

..... الشَّيْءُ عَلَى نَفْسِهِ: لازم کرنا۔ مقرر کرنا۔

المَوْعِدُ: كشادہ کیا ہوا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا
أَوْعِدُ لِكَذَا" یہ فلاں چیز کے حاصل کرنے
کے لائق ہے۔
وَعَثٌ يَوْعَثُ وَعَثًا وَوَعَثًا وَوَعَثٌ يَوْعَثُ
وَعُوَّةُ الطَّرِيقِ: راستہ دشوار گزار ہونا.....
الْأَمْرُ: گڑبڑ ہونا۔ خراب ہونا۔ صفت وَعَثٌ
وَعَثٌ وَمَوْعَثٌ وَأَوْعَثُ.
وَعَثَتْ تَوْعَثُ وَعَثًا يَذُءُ: ہاتھ ٹوٹنا صفت
وَعَثَةٌ.
وَعَثَةٌ تَوْعِثُنَا عَنِ الْأَمْرِ: باز رکھنا۔ روکنا۔
أَوْعَثُ: سخت دشوار گزار راستہ میں پڑنا.....
الرَّجُلُ: غلط ملط کرنا۔ دشوار گزار راستہ میں
چلنا..... فِئِي مَالِهِ: فضول خرچی کرنا۔
الْمُنْكَرِمُ: گفتگو سے عاجز ہونا..... الْأَمْرُ:
بگاڑنا۔ فساد کرنا..... فُلَانًا: دشوار گزار راستہ
میں چلنے پر برا بیخیز کرنا۔
الْوَعَثُ: مصـ توڑی ہوئی بڈی۔ لاغری۔
سخت دشوار۔ دشوار گزار راستہ۔ ہر مشکل
کام میں وَعَثٌ وَوَعَثٌ.
الْوَعْشَاءُ: مشقت۔ تنگن۔ ہر بری خصلت۔
کہا جاتا ہے "رَكِبَ الْوَعْشَاءَ" یعنی گناہ کا
ارتکاب کیا۔
الْوَعُوثُ: سختی و برائی۔
المَوْعُوثُ: ناقص حسب والا۔
وَعَسَدٌ يَبْعُدُ وَعْدًا وَعِدَّةٌ وَمَوْعِدَةٌ وَمَوْعِدَةٌ
وَمَوْعُودَةٌ وَمَوْعُودَةٌ فُلَانًا الْأَمْرُ وَالْأَمْرُ:
وعدہ کرنا۔ وَعَسَدَتِ الْأَرْضُ: عمدہ فصل
ہونے کی امید ہونا..... وَعَسَدًا الرَّجُلُ:
دھمکی دینا..... الْفَضْلُ: بڑبڑانا۔
أَوْعِدَةُ الْيَعَادَا: وعدہ کرنا۔ دھمکی دینا۔
وَأَعِدَّةٌ مَوَاعِدَةٌ: ایک دوسرے سے وعدہ
کرنا..... هُ الْمَوْضِعُ أَوْ الْوَقْتُ: وعدہ پورا
کرنے کے لئے جگہ یا وقت مقرر کرنا۔
تَوَاعَدَ وَاتَّعَدَ الْقَوْمُ: ایک دوسرے سے
وعدہ کرنا۔
تَوَعَّدُ: دھمکی دینا۔
اتَّعَدَ اتَّعَادًا: وعدہ قبول کرنا اور بھروسہ کرنا

..... هُ: دھمکی دینا۔
اتَّعَدَ نَاتَعِدُهُ فَهُوَ مَتَوَعَّدٌ. اتَّعَدَ: میں ایک
ضعیف لغت ہے۔
اتَّعَدُ عِدَّةً: وعدہ کرنا۔
السُّوْعِدُ: مصـ بعضوں کے نزدیک اس کی
جمع نہیں آتی اور بعض کے نزدیک اس کی جمع
وَعُودٌ آتی ہے۔
العِدَّةُ: وعدہ۔
السُّوْعِدُ: مصـ وعدہ۔ وعدہ کا وقت۔
وعدہ کی جگہ۔ عہد۔ ج مَوَاعِدُ.
السُّيْعَادُ: وعدہ کا وقت۔ وعدہ کی جگہ۔ بعضی
مَوَاعِدَةٌ ج مَوَاعِيدُ.
أَمَوْعُودُ: جمع۔ أَلْيَوْمُ الْمَوْعُودُ: قیامت کا
دن۔
وَعَسْرٌ يَعْسِرُ وَعَسْرًا: ہٹانا.....
وَعَسْرًا وَوَعُورًا وَوَعُورًا وَوَعُورًا وَوَعُورًا
يَوْعَسِرُ وَعَسْرًا وَوَعُورَةً الْمَكَانُ: سخت
ہونا۔ دشوار گزار ہونا۔ صفت وَعَسْرٌ وَعَسْرٌ
الشَّيْءُ: کم ہونا۔ صفت وَعَسْرٌ کہا جاتا ہے
"رَجُلٌ وَعَسْرٌ الْمَعْرُوفُ" مرد کم احسان و کم
خیر۔
وَعَسْرُ الْمَكَانِ: سخت بنانا..... الرَّجُلُ: روکنا
۔ ہٹانا..... الْمُنْكَرِمُ: ہات کاٹ دینا۔
أَوْعَسِرُ اِيْعَارًا بِه الطَّرِيقُ: راستہ دشوار ہونا۔
سخت جگہ میں پہنچانا..... الرَّجُلُ: سخت زمین
میں پڑنا۔ کم مال والا ہونا..... الشَّيْءُ: کم کرنا
(.....) وَاسْتَوْعَسِرَ الْمَكَانُ أَوْ الطَّرِيقُ:
دشوار و سخت پانا۔
تَوَعَّوَرَ الْمَكَانُ: سخت ہونا..... الْأَمْرُ عَلَيَّ:
سخت و مشکل ہونا..... الرَّجُلُ: سختی کرنا.....
فِئِي الْكَلَامِ: سرگشتہ و تھیر ہونا..... هُ فِئِي
الْكَلَامِ: حیران بنانا۔
الْوَاعِرُ: فـ دشوار..... (.....) وَالْوَعْرُ ج أَوْعُرٌ
وَوَعُورٌ وَأَوْعَارٌ وَوَعُورَةٌ. وَالْوَعِيرُ ج
أَوْعَارٌ.
الْأَوْعُرُ: سخت جگہ۔ کہا جاتا ہے "مَكَانٌ وَعُورٌ
أَوْ طَرِيقٌ وَعُورٌ أَوْ مَطْلَبٌ وَعُورٌ" سخت جگہ یا

راستہ یا مطلب۔ السُّوْعُرُ: خوفناک متوحش
جگہ۔
الْمَوْعِرِيُّ مِنَ الْكَلَامِ: قلیل الاستعمال جو ثقیل
اور ذوق پر کراں ہو۔
وَعَسْرٌ يَعْسِرُ وَعَسْرًا وَوَعُورٌ تَوْعِيرًا وَأَوْعُرٌ
اِيْعَارًا إِلَيْهِ فِئِي كَذَا أَنْ يَفْعَلَهُ أَوْ يَفْرَكَهُ:
آگے بڑھ کر فعل یا ترک فعل کا اشارہ کرنا۔
وَعَسْرٌ يَعْسِرُ وَعَسْرًا الشَّيْءُ: روندنا ہ
الذُّهْرُ: تجر بہ کار بنانا۔
أَوْعَسِرُ اِيْعَارًا الْقَوْمُ: ریگستان میں چلنا۔
رات میں چلنا۔ أَوْعَسِرَ الْإِبِلُ: اونٹ کا
چلنے میں گردن لمبی اور قدم کشادہ کرنا۔
وَأَعَسْرَهُ: رات کے وقت چلنے میں مقابلہ
کرنا۔ وَأَعَسِرَ الْإِبِلُ: چلنے میں گردن لمبی
اور قدم کشادہ کرنا۔
الْوَعْسُ: مصـ نشان۔ ریت۔ جس میں چلنا
دشوار ہو۔ درخت کا نام جس کی لکڑی سے
براب اور رباب وغیرہ بناتے ہیں۔ ج
أَوْعَسُ.
السُّوْعَسَاءُ: ریت۔ جس میں قدم چھنس
جائیں اور چلنا دشوار ہو۔
الْأَوْعَسُ: وہ جگہ جہاں نرم ریت ہو اور چلنا
دشوار ہو۔ ج وَعَسٌ وَأَوْعَسٌ وَج
أَوْعَسُ.
السُّوْعَسَاءُ: نرم ریت کا ٹیلہ۔ جس میں عمدہ
سبزیاں پیدا ہوں۔
المَوْعِسُ: ریت۔ جس میں چلنا دشوار ہو۔
السُّيْعَاسُ: نرم ریت۔ زمین جس پر کوئی نہ
کوئی چلا ہو۔ راستہ۔ ج مَوَاعِيسُ.
المَوْعِسُ: چلا ہوا راستہ۔
الْوَعَاطُ: سرخ یا زرد گلاب۔
وَعَطَطَهُ يَعْطَطُهُ وَعَطَطًا وَعِطَّةً: نصیحت کرنا۔
توبہ کرانے والی اور اصلاح اخلاق پر
برا بیخیز کرنے والی باتیں یا دلائل۔
اتَّعَطَّ: نصیحت قبول کرنا۔ نصیحت پر عمل کرنا۔
الْوَعَطَةُ وَعِطَّةٌ: کا اسم مرہ۔ وعظ و نصیحت ج
وَعَطَاتُ.

العظلة: وعظ ونبحت ج عظام.
الواعظ: فا-ج واعظون وواعظ.
الواعظ: واعظ کا اسم مبالغہ۔

الموعظة: وعظ کا اسم ہے۔ وعظ ونبحت ج
مواعظ۔

وَعَفَّ يُوَعِّفُ وَوَعُفًا الْبَصْرُ: نگاہ کا کمزور
ہونا۔

الوَعْفُ: سخت زمین جس میں پانی ٹھہر جائے
ج وعاف۔

وَعَقَّ يَعْقُ وَوَعَقًا وَوَعَقًا الْفَرَسُ:
گھوڑے کے چلتے ہوئے پیٹ میں
گڑگڑاہٹ ہونا۔

وَعَقَّ يَعْقُ وَوَعَقًا عَلَيْهِ: جلدی کرنا۔
وَعَقَّ يُوَعِّقُ وَوَعَقَةً وَتَوَعَّقَى وَاسْتَوْعَقَ:
کینہ خصلت والا ہونا۔ صفت ووعق ووعق
ووعق ووعقہ۔

وَعَقَّةٌ: مخالفت کرنا۔ روکنا۔ بد خوئی کی
طرف نسبت کرنا۔ فاسد کرنا۔ کہا جاتا ہے
"وَعَقَّةُ الطَّمْعِ اَوِ الْجَهْلِ" اس کو لالچ یا
جہالت نے خراب کر دیا۔ کہا جاتا ہے "مَا
اَوْعَقَهُ" وہ کس قدر جلد باز ہے۔

الوَعَقَةُ: اسم مرہ۔ بد خلقی۔ درشت خوئی۔ کہا
جاتا ہے "بِهْ وَوَعَقَةً" اس کے ساتھ بد خلقی
ہے یعنی وہ بد خلق ہے۔
الوَعَقَاقُ وَالْوَعِيقُ: چلنے کے وقت گھوڑے
کے پیٹ کی آواز۔ ہر چیز کی آواز۔

وَعَكَّ يَعْكُ وَوَعَكًا وَوَعَكَةً الْحَرُّ: گرمی
تیز ہونا۔ وَاعْكُهُ الْحُمَّى: تیز بخار
چڑھنا۔

مَوْعُوكُ: الرَّجُلُ: تنگن یا مرض کی وجہ
سے تکلیف پہنچانا (..... وَعَكًا) الشَّى: توڑنا
(..... وَاوَعَكُ) الشَّى فِي التَّرَابِ: مٹی
میں لوٹ پوٹ کرانا۔ اَوْعَكْتَ الْاِبِلَ عِنْدَ
الْحَوْضِ: بھیڑ کرنا۔

تَوَعَّكَ: بخار چڑھنا۔
اَلْوَعَكُ: مص (.....) وَالْوَعَكُ
"ک" بخار والا۔

الْوَعَكَةُ: مص ووعك کا اسم مرہ۔ ہوا کا
رکنا اور گرمی کا بڑھنا۔ دوڑنے میں سخت
گرتا۔ میدان جنگ۔ مرض۔ ووعك
الْحُمَّى: بخار کی تیزی۔ ووعك الْأَمْسِ:
معاملہ کی سختی۔ ووعك الْاِبِلِ: اونٹوں کے
گلے۔

المَوْعُوكُ: مفع۔ بخار والا۔
وَعَلَّ يَعْلُ وَوَعَلًا وَوَعَلًا الْجَبَلُ:
اد پر سے جھانکنا۔
تَوَعَّلَ الْجَبَلُ: پہاڑ پر چڑھنا۔

اِسْتَوْعَلَ الْبَيْهَ: پناہ لینا۔ اِسْتَوْعَلَتْ
الْاَوْعَالُ: پہاڑی بکریوں کا پہاڑ کی چوٹی پر
چڑھنا۔

الْوَعْلُ وَالْوَعْلُ وَالْوَعْلُ: پہاڑی بکرا۔ ج
اَوْعَالَ وَوَعُولٌ وَوَعْلٌ وَوَعْلَةٌ وَوَعْلَةٌ:
آخر کے دو اسم جمع ہیں۔ مَوْعِدٌ وَوَعْلَةٌ ج
وَعَلَاتٍ وَوَعَالَ الْوَعْلُ: شریف۔ جائے

پناہ۔ ج اَوْعَالَ وَوَعُولٌ کہا جاتا ہے
"مَالِكٌ عَنْهُ وَعْلٌ" تجھے اس سے کوئی چارہ
نہیں "وَهُمْ عَلَيْنَا وَعْلٌ وَاجِدٌ" وہ سب
ہمارے خلاف عداوت میں متفق ہیں۔

الْوَعْلَةُ: پہاڑ میں بلند جگہ۔ مِّنَ الْقَيْصِصِ:
قیص کا کلمہ۔ ووعْلَةُ الْاِنْسِرِيقِ: لوٹے کا
دست۔

المُسْتَوْعِلُ: پہاڑ کی چوٹی پر پہاڑی بکرے
کی جائے پناہ ج مُسْتَوْعِلَاتٍ.
وَعَمٌ وَوَعِمٌ وَعَمٌ وَعَمًا الْبَيَازُ: خوش باش
کہنا اور اسی سے ہے "عَمٌ صَبَاحًا وَعَمٌ
مَسَاءً" وَعَمٌ بِالْخَيْرِ: نیکی کی خبر دینا۔

الْوَعْمُ: مص۔ پہاڑ میں نشان جو بقیہ رنگ
کے مخالف ہوں وعام۔
تَوَعَّنَ الشَّى: پورا لے لینا۔ تَوَعَّنَتْ
الدَّابَّةُ: چوپائے کا انتہائی مونا ہونا۔
الْوَعْنُ وَالْوَعْنَةُ: سخت زمین۔ زمین میں
سفید جگہ جہاں کچھ نہ اگے ج وَعْنَانُ.
الْوَعْنُ: جائے پناہ۔
وَعْوَعٌ وَوَعْوَعَةٌ وَوَعْوَعًا الْكَلْبُ اَوِ الْبُنُ
أَوْى: بھونکنا..... الْقَوْمُ: شور مچانا..... الْقَوْمُ:

توم کو جھڑ جھڑادینا۔
الْوَعْوَاعُ: مص۔ لوگوں کی جماعت جو شور
مچاتی ہے۔ بے ہودہ گو۔ گیدڑ یا کتے کی
آواز و دید بان۔

الْوَعْوَعُ: گیدڑ۔ لومڑی۔ بلیغ خطیب۔
بیابان دید بان ج وَعْوَاعُ. الوَعْوَاعُ:
دلاور لوگ۔ الوَعْوَعِيُّ: خوش طبی تیز
خاطر۔

وَعَى يَعْصِي وَوَعْيًا الشَّى: جمع کرنا.....
الْحَدِيثُ: قبول کرنا۔ غور کرنا۔ یاد کرنا.....
الْأَذُنُ: سننا..... الْقَيْحُ فِي الْجُرْحِ: پیپ کا
زخم میں جمع ہونا..... الْجُرْحُ: زخم سے پیپ
بہنا..... الْعِظْمُ: ہڈی کا ٹوٹنے کے بعد
درست ہونا۔

أَوْعَى اِبْنَاءَهُ الْكَلَامَ اَوِ الشَّى: یاد کرنا۔
جمع کرنا..... السَّزَادُ وَنَحْوُهُ: برتن میں رکھنا
..... الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ: بجل کرنا
(.....) وَأَسْتَوْعَى اِسْتِعَاءً الشَّى: سارا
لینا۔

الْوَعْيُ: مص۔ پیپ (.....) وَالْوَعْيُ: شور۔
اور کہا جاتا ہے "فَالْيُ عَنْهُ وَعْيٌ" مجھے اس
سے کوئی چارہ نہیں۔ "الْفَرَسُ وَعْيٌ" مضبوط و
قوی گھوڑا۔

البُوعَاءُ وَالْوُعَاءُ: برتن ج اَوْعِيَةٌ وَج
أَوْاعٍ.
الْوَاعِيُ: فا۔ وَاِصْيَ الْيَتِيمِ: یتیم کا والی و
تمہبان۔

الْوَاعِيَةُ: وَاِصْيَ: کامونٹ۔ آواز۔ حج۔
کہا جاتا ہے "هُوَ اَوْعِيٌ مِّنْ فُلَانٍ": وہ فلاں
سے زیادہ یاد کرنے والا اور زیادہ سمجھدار
ہے۔ "وَهُوَ اَوْعِيٌ مِّنْ نَّمْلَةٍ": وہ چوٹی سے
زیادہ جمع کرنے والا ہے۔

الْوَعِيُّ: یاد کرنے والا۔ فقیہ۔
مَوْعِيٌ الرَّسْغِ: مضبوط کلائی والا۔
وَعَبٌ يُوَعِّبُ وَوَعَابَةٌ وَوَعْبَةٌ الْجَمَلُ:
اُونٹ کا مونا ہونا۔
الْوَعْبُ: رودی سامان۔ مونا اونٹ۔ کمزور

جسم والا۔ کمینہ۔ رذیل۔ ج اَوْغَاب
 وِوْغَابٍ: مَوْتٌ وَغَيْبَةٌ (.....) (الوْغَبَةُ)
 بے وقوف۔
 وَغَدٌ يَغْدُ وَغَدًا الْقَوْمُ: خدمت کرتا۔
 وَغَدٌ يُوغِدُ وَغَادَةً: ضعیف العقل و کمینہ
 ہوتا۔
 وَاعْنَدَهُ مُوَاغِدَةٌ: کسی کے فعل کی نقل کرنا۔
 وَاعْدَفَلَانًا فِي السَّيْرِ: رفتار میں مقابلہ
 کرنا۔
 الوغد: ضعیف العقل۔ بے وقوف۔ کمینہ۔
 بچہ۔ قوم کا خادم۔ غلام۔ ج اَوْغَادٌ
 وُوْغِدَانٌ وُوْغِدَانٌ مَوْتٌ وَغَدَةٌ الوغد:
 جوئے کا ایک تیر جس کا کوئی حصہ نہیں۔
 شکار۔
 وَغَرٌ يَغْرُ وَغَرًا النَّوْمُ: سخت گرم ہونا۔
 وَغَرْنَةُ الشَّمْسِ: تیز دھوپ پڑنا
 (.....) وُوْغَرٌ يُوْغِرُ وَيُغْرُ وَغَرًا: صَدْرُهُ
 عَلِيُّ فُلَانٍ: غصہ سے بھڑک اٹھنا۔
 وَغَرَةٌ تُوْغِرُوا عَلِيَّهِ: کینہ رکھنے پر برا بھینٹے
 کرنا۔
 اَوْغَرُهُ اِنْغَارًا: غضبناک کرنا۔ اَوْغَرُ
 صَدْرُهُ: غصہ سے بھڑکانا..... المَاءُ: پانی گرم
 کرنا..... هُ اِلَى كَذَا: پناہ لینے پر مجبور کرنا
 الْجَنَازِيْرُ: سور کے بالوں کو گرم پانی سے
 صاف کر کے ذبح کرنا۔ "اَوْغَرُ الْمَلِكِ"
 لِيُرْجَلَ اَرْضًا وَاَوْغَرَهُ اَرْضًا: بغیر خراج کے
 زمین دینا..... السَّقْوْمُ: گرمی کے وقت میں
 داخل ہونا۔ "اَوْغَرُوا يَنْبَغُهُمْ مِبْغَرًا" یا ہم
 وقت مقرر کرنا۔
 تَوْغَرٌ: غصہ سے بھڑک اٹھنا۔
 الوغر والوغر: مصل۔ کینہ۔ دشمنی۔ وغرُ
 الخبيث: لشکر کا شور۔
 الوغرة: اسم مرثہ۔ گرمی کی بھڑک۔ کہا جاتا
 ہے "لَقِيْتُهُ فِي وَغْرَةِ الْمَهَاجِرَةِ" میں نے
 اس سے دو پہر کی گرمی میں ملاقات کی۔
 الوغيسر: گرم پتھر پر بھنا ہوا گوشت (.....)
 والسوغيرة: گرم پتھروں سے گرم کیا ہوا

دودھ۔
 الميغفر: وقت معینہ۔ وعدہ۔
 وَغَضٌ تَوْغِيضًا فِي الْاِنْبَاءِ: برتن میں بھرنا۔
 وَغَفٌ يَغْفُ وَغَفًا وَوُغُوْفًا الْبَصْرُ: نگاہ
 کمزور ہونا..... السَّرْجُلُ: جلدی چلنا اور
 دوڑنا۔
 اَوْغَفَ اِنْغَافًا الرَّجُلُ: جلدی چلنا اور دوڑنا
 ۔ کمزور نگاہ والا ہونا۔ بقدیر کفایت کھانا
 کھانا۔
 الْكَلْبُ: کتے کا پانپنا..... الطَّائِرُ: پرندہ کا
 جلدی جلدی پر پھڑ پھڑانا۔
 الوغيق: چلنے میں جانور کے پیٹ کی آواز۔
 وَغَلٌ يَغْلُ وَوُغُلًا فِي الشَّيْءِ: داخل ہو کر
 چھینا جانا اور دُور جانا (.....) وَغَلًا وَوُغُلًا
 وَغَلَاتَسًا: عَلِيُّ الْقَوْمِ: بغیر بلائے ہوئے
 شراب کی مجلس میں آ کر پینا۔
 اَوْغَلَ اِنْغَالًا فُلَانًا فِي كَذَا: داخل کرنا.....
 فِي السَّيْرِ: تیز چلنا..... فِي الْعِلْمِ وَنَحْوِهِ:
 پوری طرح جدوجہد کرنا السَّقْوْمُ: دشمن کے
 ملک میں دور تک گھٹے ہوئے چلا جانا (.....)
 وتوغل) فِي الْبِلَادِ: جانا اور دور تک جانا۔
 السَّوْغَلُ: مصل۔ ست فرومایہ کوتاہی کرنے
 والا بغیر بلائے ہوئے کھانے پینے میں آنے
 والا۔ جائے پناہ۔ ایک قسم کا دانہ جو کمبوتر
 کھاتے ہیں۔ گھبان درخت ج اَوْغَالُ
 (.....) والسَّوْغَلُ: جھوٹا نسب کا دعویٰ کرنے
 والا۔ بدخوداک۔
 الوغال: وصف بیان کرنے میں مبالغہ کرنے
 والا۔ گراں فروش۔
 المُوْغِلُ: جلدی داخل ہونے والا۔
 وَغَمَةٌ يَغْمُهُ وَغَمًا: مغلوب کرنا۔ وَغَمٌ
 بِالْحَبْرِ: خبر کو بغیر تحقیق کے بیان کرنا۔ وَغَمٌ
 اِلَى الشَّيْءِ: خیال جانا۔
 وَغَمٌ يُوْغَمُ وَغَمًا عَلِيَّهِ: کینہ رکھنا۔
 اَوْغَمَةٌ: کینہ دور بنانا۔
 تَوْغَمَهُ عَلِيَّهِ: غضبناک ہونا (.....) (تَوَاغَمٌ)
 الْاِنْطِلَالُ فِي الْحَرْبِ: سخت جنگ کرنا اور

بقول بعض آڑی ترکیبی نظر سے دیکھنا۔
 الوغم: مصل۔ دل میں بیجا ہوا کینہ۔ لڑائی و
 مقاتلہ۔ نفس۔ بے وقوف۔ کھانے میں
 سے جو گر جائے ج اَوْغَامُ. رَجُلٌ وَغَمٌ:
 کینہور۔
 تَوْغَنٌ تَوْغَنًا: جنگ میں پیش قدمی کرنا۔
 عَلِيُّ الْمَغَاصِي: اصرار کرنا۔
 الوغنة: کشادہ منکا۔
 الوغى والوغى: شور و آواز۔ لڑائی۔
 وَقَدْ يَغْدُ وَقَدْ وَوُفُوْدًا وَوُفَادَةً اِلَى
 اَوْعَلَى الْاَمِيْرِ: قاصد بن کر آنا۔ صفت
 وَاَهْد. ج وَوُفَدٌ وَوُفُوْدٌ وَوُفَادَةٌ وَقَدْ
 اَوْوُفَدًا اِنْغَادًا: بلند ہونا..... عَلِيَّهِ: اوپر سے
 جھانکنا۔ تَوْوُفَدَتِ الْاِبِلُ اَوْ الطَّيْرُ: ایک
 دوسرے سے آگے نکل جانا۔
 تَوَاوَدَ الْقَوْمُ عَلِيَّهِ: اکٹھے وارد ہونا۔
 اسْتَوْفَدَ فِي قَعْدَتِهِ: غیر مطمئن بیٹھنا۔
 (لغت ہے اسْتَوْفَرُ (میں)..... هُ: وفد بھیجنا۔
 التَّوْفُدُ: مصل۔ وفد کی جمع۔ وہ لوگ جو
 اکٹھے کسی شہر میں جائیں۔ وہ لوگ جو کسی
 مشرک کو غرض کے لیے بادشاہ یا حاکم کے
 پاس جائیں۔ الوقد: ریت کے ٹیلہ کی چوٹی
 ج وفود و اوفاد۔
 الواليد: فَا..... مِنَ الْاِبِلِ وَنَحْوِهَا: سب
 سے آگے رہنے والا۔ رخسارے کا وہ حصہ
 جو کھانا چباتے وقت اُبھر جاتا ہے۔
 الوفاد: بہت وفد والا۔
 وَفَرٌ يَفِرُّ وَفَرًا وَفِرَّةٌ لَهُ الْمَالُ: زیادہ
 کرنا۔ پورا کرنا..... عَرَضُ فُلَانٍ: حفاظت
 کرنا اور گالی نہ دینا۔ کہا جاتا ہے "وَفِرَّةٌ
 عَرَضَةٌ" جب کہ تم تعریف کرو اور عیب جوئی
 نہ کرو..... عطاءة: ک: رضامندی کے ساتھ
 واپس کر دینا یا کم سمجھ کر واپس کرنا.....
 الثَّوْبُ: کپڑے کو کشادہ قطع کرنا (.....) وَفَرًا
 وَوُفُوْرًا وَفِرَّةٌ وَفَرٌ يُوْفِرُ وَفَارَةٌ الْمَالُ اَوْ
 الْمَتَاعُ: مال یا سامان بکثرت ہونا۔

وَقَرُّ تَوْفِيرًا الشَّيْءُ: زیادہ کرنا..... لِفَلَانٍ
عِزْرُهُ: حفاظت کرنا۔ گالی نہ دینا.....
النَّالُ: کمی نہ کرنا..... حِصَّةٌ مِنَ الْمَالِ: باقی
رکھنا۔ عَلَيْهِ حَقُّهُ: پورا حق دینا..... التَّوْبُ:
کپڑا کشادہ قطع کرنا..... لِفَلَانٍ طَعَامُهُ:
پوری خوراک دینا..... اللَّهُ حِظُّهُ مِنْ كَذَا:
کاش کرنا۔
أَوْفَرُ فَلَانٍ الشَّيْءُ: زیادہ کرنا۔ بڑھانا۔ پورا
کرنا۔
تَوَفَّرَ عَلَى كَذَا: بہت صرف کرنا..... عَلَى
صَاحِبِهِ: حرمت و عزت کا پاس و لحاظ کرنا۔
تَوَافَرَ وَاتَّفَرَ الشَّيْءُ: زیادہ ہونا۔
إِسْتَوْفَرَ الشَّيْءُ: پورا کرنا..... الْمُحَقُّ: پورا حق
لینا۔
الْوَفْرُ: بھس۔ تو انگری..... مِنَ الْمَالِ او
الْمَتَاعِ: بہتات۔ کثرت۔ یا صرف مال و
متاع ہی کے لئے نہیں بلکہ ہر چیز کے لئے
عام ہے۔ جَوْفُورٌ:
الْوَفُورَةُ: اسم مرءة۔ کثرت۔ بہتات۔ کانوں
تک لگنے ہوئے بال جو وفار۔
الْوَاوِرُ: فاعل علم عروض کی ایک بحر۔
السَّوَاوِرَةُ: الوافر۔ کاموٹ۔ دنبہ کی بڑی
چکی۔
الْأَوْفَرُ: کامل۔ تام۔ مکمل۔
السَّوَفَرَاءُ: بھرا ہوا۔ سَزَادَةٌ وَفَرَاءُ: پوری
کھال والا تو شوان۔ أَدْنَى وَفَرَاءُ: بڑا
کان۔ أَرْضٌ وَفَرَاءُ: بہت گھاس و نباتات
والی زمین۔
قَوْمٌ مُتَوَفِّرُونَ: بہت لوگ۔
السُّوْفَرُ: مفتح۔ السُّوْفَرُ الشَّعْرُ: بہت اور
لبے بالوں والا۔ اور کہا جاتا ہے "تَسْرُحْنَسُهُ
عَلَى أَحْسَنِ سُوفَرٍ" میں نے اس کو اچھی
حالت میں چھوڑا۔
السُّوْفُورُ: مفتح۔ مکمل چیز۔
أَوْفَرَةٌ إِيفَارًا: جلدی کرنا۔
وَأَفْرَةٌ: جلدی کرنا۔
تَسُوْفَرٌ كِلَامُ: آمادہ ہونا۔ اور کہا جاتا ہے

"أَخَذَ تَسُوْفَرُ عَلَى فَرَايِهِ" وہ کچھونے پر
لوٹنے پوٹنے گا۔
إِسْتَوْفَرَ إِسْتِيفَارًا أَفِي قَعْدَتِهِ: غیر مطمئن
بیٹھنا اور اٹھنے کے لئے تیار ہونا۔
السُّوْفَرُ وَالْوَفْرُ: جلدی جَوْفَارٌ وَوَفَارٌ:
مَسْكَانٌ وَفَرٌ: بلند جگہ۔ کہا جاتا ہے "نَحْنُ
عَلَى وَفْرٍ وَوَفْرٍ أَوْ أَوْفَارٍ" ہم جلدی میں
ہیں یا ستر کے لئے تیار ہیں۔
أَوْفَضَ إِيفَاضًا: تیز چلنا اور دوڑنا..... هُ:
دھکارنا..... الْإِبِلُ: اونٹوں کو جدا جدا کرنا
..... لِلرُّجُلِ: بیٹھنے کے لئے فرض بچھانا۔
إِسْتَوْفَضَ إِسْتِيفَاضًا: تیز چلنا اور دوڑنا۔
..... الْإِبِلُ: اونٹوں کا متفرق ہونا..... جلدی
کرنا۔ دھکارنا۔ جلا وطن کرنا۔
السُّوْفُضُ وَالْوَفُضُ: بھس۔ جلدی ج
أَوْفَاضٌ:
الْوَفَاضُ: چکی کے نیچے رکھنے کا چرما۔ وہ جگہ
جہاں پانی ٹھہر جائے جَوْفُضٌ:
الْوَفُضَةُ: اسم مرءة۔ ترکش کے مانند چمڑے کا
ایک برتن جس کا مچلا حصہ ہموار ہوتا ہے
چمڑا ہے کا تھیلا۔ اوپر کے ہونٹ پر موٹھوں
کے درمیان کا گڑھا۔ جَوْفَاضٌ:
الْأَوْفَاضُ: لوگوں کی مختلف جماعتیں۔
نَسَافَةٌ او نَعَامَةٌ مِيفَاضٌ: تیز رفتار اونٹنی یا ستر
مرغ۔
الْوَفْعُ: بلند عمارت یا بلند جگہ۔ جَوْفَافِعٌ:
عِلَامٌ وَوَفْعٌ جَوْفَعَانٌ وَوَفْعَةٌ وَوَفْعَةٌ:
نوجوان لڑکا۔
الْوَفِيعَةُ: قلم صاف کرنے کا چھتھرا۔ الْوَفِيعَةُ
الْوَفِيعَةُ: کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ٹوکری۔
الْوَفِيعَةُ وَالْوَفِيعَةُ وَالْوَفَاعُ: شیشی کی ڈاٹ۔
وَفِيقٌ يَفِيقُ وَوَفِيقًا الْأَمْرُ: موافق پانا.....
الْأَمْرُ: موافق ہونا۔
وَفِيقٌ الْأَمْرُ: موافق کرنا..... هُ اللَّهُ: درست
کرنا..... هُ اللَّهُ لِلنَّخِيرِ: الہام کرنا..... بَيْنَ
الْقَوْمِ: اصلاح کرنا۔ وَوَفِيقَتْ لَهُ: اس نے
مجھے پالیا اس نے مجھ سے ملاقات کی۔

وَأَفِيقَهُ وَوَفِيقًا وَمُؤَافِقَةً: پانا..... هُ فِيقِي او
عَلَى الشَّيْءِ: موافق ہونا..... بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ:
دو چیزوں کو جوڑنا۔
أَوْفَقَ الْقَوْمَ لَهُ: قریب ہونا اور سب کا متفق
ہونا اور کہا جاتا ہے "أَوْفَقَ لِرَبِّدٍ لِقَاءَ نَا"
زید سے ہم لوگوں کی ملاقات اچانک ہو
گئی۔
أَوْفَقَ السَّهْمَ وَبِالسَّهْمِ: تیر چلانے کے
لئے نوق کو تانت پر رکھنا (دیکھئے لِنظْفُوقِ)
یہ افسوق کا مقلوب ہے اور اصل کا استعمال
بہت نادر ہے۔
تَوَفَّقَ: کوشش کا میاب ہونا۔ توفیق پانا۔
تَوَافَّقَ الْقَوْمُ فِي الْأَمْرِ: ایک دوسرے کے
موافق ہونا۔ ایک دوسرے کے قریب
ہونا۔ ایک دوسرے کی مدد کرنا۔
إِتَّفَقَ الرَّجُلَانِ عَلَى الشَّيْءِ وَفِيهِ: اتفاق
کرنا۔ قریب ہونا۔ متحد ہونا۔ اِتَّفَقَ مَعَهُ:
موافقت کرنا۔
الْأَمْرُ: واقع ہونا۔
إِسْتَوْفَّقَ إِسْتِيفَاقًا اللَّهُ: اللہ سے توفیق
مانگنا۔
السُّوْفِقُ: بھس۔ دو چیزوں کی مطابقت۔ قدر
کفایت۔ کہا جاتا ہے "تَحَسَّبَهُ وَفَّقَ عِيَالَهُ"
اس کی کمائی اس کے اہل و عیال کے لئے
کافی ہے کچھ بچتا نہیں۔ "وَجَاءَ الْقَوْمُ وَفَّقًا"
قوم اتفاق کر کے آئی "وَأَتَيْتُهُ وَفَّقَ طَلْعَتِ
السُّمُسُ" میں اس کے پاس طلوع آفتاب
کے وقت آیا۔
السُّوْفِيقُ: بھس۔ تَوَفَّقِي الْهَيْلَالُ وَتَوَافَقَهُ
وَتَبَافَقَهُ وَتَبَافَقَهُ وَتَوَفَّقَهُ وَمِيفَاقَهُ: سنے
چاند کے ٹکٹے کا وقت۔
السُّوْفِيقُ: ہمراہی۔ ساتھی۔
السُّوْفِيقُ: بھس۔ کہا جاتا ہے "إِنَّ فَلَانًا
مُؤَفَّقٌ" فلاں نیک آدمی ہے۔
وَقَلَّ يَقُلُّ وَقَلَّ الشَّيْءُ: چھیلنا۔
وَقَلَّ تَوَفَّقًا الشَّيْءُ: زیادہ کرنا۔ بڑھانا۔
چھیلنا۔

الْوَفْلُ: مِصْرٌ - تَهْوِزِي چيز۔
تَوَفَّنَ الشَّيْءُ: كَمَ هَوَانًا۔
الْوَفْقَةُ: كَمِي۔

وَفَقَهُ يَفِقُهُ وَفَهَا النَّصْرَانِيُّ: خَادِمٌ مَرَجَا هَوَانًا۔
الْوَفِيَّةُ: مَرَجَا كَانَا ظَمِيمًا وَنَمْرًا - سَرِيحٌ۔
الْوَفَاهَةُ: مَرَجَا كَانَا ظَمِيمًا كِي تَخَوَاهُ۔
الْوَفِيَّةُ: مَرَجَا كَانَا ظَمِيمًا كَارْتَبَهُ۔

وَفِي يَفِي وَيَفَاءً بِالْوَعْدِ أَوْ الْعَهْدِ: پورا کرنا۔ محافقت کرنا..... السُّذْرُ: نذر پوری کرنا..... الشَّيْءُ: طویل ہونا اور اسی سے ہے "مَاتَ فُلَانٌ وَأَنْتَ بِوَفَاءٍ" فلاں مر گیا اور تیری عمر دراز ہو..... رَيْشُ الْجَنَاحِ: بازو کے پروں کا پورا ہونا..... (وَفِيًّا) الشَّيْءُ: کامل ہونا اور بہت ہونا..... التَّرْوَمُ: الجشقال: برابر ہونا۔ ہم وزن ہونا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا الشَّيْءُ لَا يَفِي بِذَاكَ" یہ چیز اُس کے برابر نہیں ہے۔

وَفِي تَوْفِيَّةً. الرَّجُلُ حَقُّهُ: پورا حق دینا۔
أَوْفَى الْبَيْضَاءَ بِالْوَعْدِ: پورا کرنا..... النَّذْرُ: نذر پوری کرنا..... الْكَيْلُ: پورا پانا.....
فَلَانًا حَقُّهُ: پورا حق دینا..... الْمَكَانُ: آنا.....
عَلَى الْمَكَانِ: اوپر سے جھانکنا.....
عَلَى الْجَمَاةِ: سوسے زائد ہونا..... عَلِي الشَّيْءِ وَفِي الشَّيْءِ: اوپر سے جھانکنا۔

وَالْفِي مَرَاةً فَلَانًا حَقُّهُ: پورا حق دینا.....
الرَّجُلُ: آنا۔ اچانک آنا۔ وَأَفَاهُ الْحَمَامُ
أَوْ الْكِنَابُ: مَوْتٌ كَأَنَّمَا يَخْطُ كَأَنَّمَا۔

تَوَافَى تَوَافِيَا الْقَوْمِ: ساری قوم کا آنا۔
تَوَفَى تَوَفِيًّا: پورا ہونا..... حَقُّهُ: پورا حق لینا۔ کہا جاتا ہے "تَوَفَيْتُ مِنْ فُلَانٍ مَالِي عَلِيهِ" جو کچھ میرا حق فلاں پر تھا اس کو میں نے پورا لے لیا..... الْمُدَّةُ: مدت کو پانچنا.....
الشَّيْءُ: کامل بنانا..... عَدَدَةُ الْقَوْمِ: پورا شمار کرنا۔ تَوَفَاهُ اللَّهُ: مَوْتٌ دِينًا تَوَفَى فُلَانٌ
فُلَانٌ مَرَجَا۔ اللَّهُ كَوَفَّى قَوْمِي وَأَرَبَدَةً كَوَفَى مَوْتِي كَمِي۔

تَوَفَى كَمِي۔
اسْتَوَفَى اسْتِيفَاءً حَقُّهُ: کامل و پورا حق لینا۔

الْوَفَاءُ: مِصْرٌ - كَمَا جَاءَا فِي "مَاتَ عَنْ وَفَاءٍ"
وہ مر گیا اور حقوق واجبہ کے پورا کرنے کے
لأنَّ مَالٌ مَرَجَا "وَمَاتَ وَأَنْتَ بِوَفَاءٍ" وہ
مر گیا اور تیری عمر دراز ہو۔

الْوَفَى وَالْمِيفَى وَالْمِيفَاءُ: زَمِينٌ كَابِلِنْدِ
حَصَّةٍ - الْمِيفَى: تَمْرٌ كَاؤُفْ حَلَاوَةً۔ ایتوں کے
پکانے کا آوا۔

الْوَفَاةُ: مَوْتٌ - مَوَفِيَاتٌ۔
الْوَفِيُّ: پورا۔ کامل۔ بہت وفا کرنے والا۔
حَقٌّ دِينَے والا۔ حَقٌّ لِيْنِے والا۔ مَوَفِيَاتٌ۔

الْوَفِيُّ: فَا - مَوْنٌ وَابِيَّةٌ أَيْكَ وَرَبِّهِمْ وَأَرْجَا
دَانٌ..... عِنْدَ الشُّعْرَاءِ: وَهْ شَعْرٌ جَسَّ كِ
اجزاء پورے ہوں۔

المِيفَاءُ: وَفَا كَرْنِے والا۔
وَقَبَّ يَقْبُ وَقَبًا الرَّجُلُ: مَتَوَجِّهٌ هَوَانًا۔ آنا۔
گڑھے میں داخل ہونا۔

وَقَبْتُ وَقَبًا وَقُبُونَا الشَّمْسُ: آفتاب کا
غروب ہونا..... السَّطْلَامُ: تار کی پھیلاؤ.....
الْقَمَرُ: چاند کا گہن میں آنا..... الرَّجُلُ:
دھنسی ہوئی آنکھوں والا ہونا..... عَيْنَاةُ:
آنکھوں کا دھنسنے جانا۔

أَوْقَبَ إِيقَابًا: جھوکا ہونا..... الشَّيْءُ: پتھر کے
گڑھے میں داخل کرنا..... النَّخْلُ: درخت
خرما کے پتھوں کا بد بو دار ہونا۔

الْوَقْبُ: مِصْرٌ - پتھر کا گڑھا جس میں پانی جمع
ہو جائے۔ روشن دان۔ جسم کا ہر گڑھا۔ جیسے
آکھ کا جَوَقْبُوبُ وَوَقَابُ. الْوَقْبُ: بے
دوقف۔ کینہ جَوَقْبَابُ. الْاَوْقَابُ: گھرا کا
سامان۔

الْوَقْبَانُ: بے دوقف۔ مَوَقْبِي۔
السُّوقِبَةُ: پتھر کی چٹان یا جسم میں گڑھا۔ بڑا
روشن دان جس میں سایہ ہو۔ شہید وغیرہ سے
جو نکلے۔

رَبِيَّةٌ وَوَقْبَاءُ: گہرے پانی کا کنواں۔
السُّقْبَةُ: اوچھ کا وہ حصہ جو پرت پرت ہوتا
ہے۔

الْوَقْبِيُّ: بے دوقفوں کی صحبت کا حریص۔

المِيفَابُ: کوزی۔

المِيفَابُ: بہت شراب پینے والا۔ اور کہا
جاتا ہے "إِنَّهُمْ يَسِيرُونَ سِيرَ الْمِيفَابِ"
وہ لوگ دن رات لگا تار سفر کرتے ہیں۔

وَقَّتْ يَقِثُ وَقْتًا الْأَمْرُ: وَتَمَرَّرَ كَرْتًا۔
وَقَّتْ الْأَمْرُ: وَتَمَرَّرَ كَرْتًا۔ کام کی مدت
بیان کرنا۔ اور کہا جاتا ہے "وَقَّتْ الْأَمْرُ
لِيَوْمٍ مَخْذًا" اُس نے کام فلاں دن کے لئے
مقرر کیا۔

الْمَوْقُتُ: مِصْرٌ - زَمَانَةٌ كِي مَقْدَرِجٍ أَوْ وَقَاتِ
أَوْقَاتِ السَّنَةِ: سَالٌ كِي فَصِيلِيں - وَقَّتْ
مَوْقُوتٌ وَمَوْقُوتٌ: مَقَرَّرٌ كَرْتًا۔
الْمَوْقُوتُ: بَعِيْنٌ - بَعِيْنٌ كَا زَمَانَةٌ - بَعِيْنٌ كِي
جگہ۔

المِيفَاتُ: وَتَمَرَّرَ كَرْتًا۔ وعدہ جس کے لئے وقت
مقرر کیا گیا ہو۔ اور کبھی اس مقام کے لئے
بھی استعارہ کیا جاتا ہے جس میں اجتماع
کے لئے وقت مقرر کیا گیا ہو۔ مَوَقِيتٌ۔
الْمَوْقُوتُ: اوقات اور چاند کا اندازہ رکھنے
والا۔

وَقَّحَ يَقْحُ قِحَةً وَقِحَةً وَوَقَّحَ وَوَقَّحًا
وَقَّحَ يَقْحُ وَقَّحَةً وَوَقَّحَةً: بے حیا ہونا۔
بے شرم ہونا۔ قِحَ افعال پر جری ہونا۔ صفت
وَقَّحٌ..... خَالِيزُ الدَّائِبَةِ: چوپایہ کے کھر کا
سخت ہونا۔

وَقَّحَ الْخَوْضُ: حَوْضٌ كَوَيْسٌ وَأَوْقَحَ
دَرَسَتْ كَرْتًا..... خَالِيزُ الدَّائِبَةِ: کھلی ہوئی
چربی لگا کر چوپایہ کے کھر کو سخت کرنا۔

أَوْقَحَ وَاسْتَوْقَحَ الْخَافِرُ: کھر کا سخت ہونا۔
تَوَاقَحَ: بے حیائی ظاہر کرنا۔

السُّوقَاخُ (مذکر و مؤنث): بے شرم مَوَقَّحٌ
وَوَقَّحٌ. خَالِيزُ وَقَّاحٌ: سخت کھر۔
رَجُلٌ وَقَّحٌ وَقَّحٌ الْوَجْهَ: بے شرم مرد۔

السُّوقَاخُ: مَفْعٌ - مَتَلَاةٌ مَصَابِجٌ - بَعِيْرٌ
مَوْقَّحٌ: کام کی وجہ سے تھکا ہوا اونٹ۔
وَقَّذٌ يَقْذُ وَقَّذًا وَوَقَّذًا وَوَقَّذَانًا
وَلِئْلَةٌ وَاتَّقَذَ: روشن ہونا..... السَّارُ: آگ

جلنا۔ بھڑکنا۔ مشتعل ہونا۔ کہا جاتا ہے "وَقَدَّتْ بَكَ زَنَادِي" تیری وجہ سے میری چتماق نے آگ دی۔ یعنی تیری وجہ سے میری کامیابی ہوئی۔ وَقَدَّ وَأَوْقَدَ وَتَوَقَّدَ وَاسْتَوْقَدَ النَّارَ: آگ بھڑکانا۔ مشتعل کرنا۔ تَوَقَّدَتِ النَّارُ وَاسْتَوْقَدَتْ: آگ بھڑکنا۔ تَوَقَّدَ الْكُتُوبُ: ستاروں کا روشن ہونا۔ چمکانا۔ کہا جاتا ہے أَبْعَدَ اللَّهُ دَاوَةَ وَأَوْقَدَ نَارًا اتْرَةً: اللہ اس کے گھر کو دور کر دے اور آگ میں اس کے اثر کو جلا دے یعنی اس کو واپس نہ کرے۔

الْوَقْدُ وَالْوَقْدُ: موص۔ آگ۔
السُّوقِدَةُ: وَقْدُ: کا اسم مرہ۔ سخت گرمی کا زمانہ کہ دس دن یا نصف مہینہ ہے۔
الْقَلْدَةُ: موص۔ جس کی تم بیروی کرو۔ اس معنی کے لحاظ سے اس کی اصل قَدْو ہے تا داؤ کے بدلہ میں ہے۔

الْوَقَادُ وَالْوَقِيدُ وَالْوَقُودُ: ایسے جن سے آگ لگائی جائے۔

الْوَقَادُ: اسم مبالغہ۔ كُتُوبٌ وَقَادٌ: بہت روشن ستارہ۔ رَجُلٌ وَقَادٌ: تیز طبع روشن خاطر مرد۔

المُوقِدُ: جمع موقد والمُسْتَوْقِدُ: چولہا۔ زَنْدٌ مَيْقَادٌ: جلدی روشن ہونے والا چتماق۔

المُتَوَقِّدُ: نا۔ روشن۔ تیز طبع۔

وَقْدَةٌ بَيْقِدَةٌ وَقْدًا: بچھاڑنا۔ مہلک ضرب لگانا۔ صفت مفعولی وَقِيدٌ وَمَوْقُودٌ..... هُ النَّعَاسُ: غلبہ نیند کی وجہ سے متوالا ہونا..... وَأَوْقَدُ فَلَانًا: بیمار چھوڑنا۔

السُّوقِيذُ: مہلک بیماری میں مبتلا۔ بوجھل ست۔ وَقِيدُ الْجَوَانِحِ: تمکین دل والا۔ مَوْنِثٌ وَقِيلَةُ ج وَقَائِدُ: الوَقَائِدُ: بچھے ہوئے پتھر۔

السُّوقِيذُ: بدن کے اطراف۔ جیسے لُحْنَدُ حُثْنَا: کندھا۔ ج موقد۔

وَقَرَّ يَقَرُّ وَقَرًّا وَقَرًّا وَقَرًّا: ہڈی کا پھاڑنا۔ وَقَرُّ الْعَظْمِ: ہڈی کا پھٹنا۔ صفت مفعولی مَوْقُودٌ

وَقِيرٌ (..... قِرَّةٌ وَوَقَارَةٌ وَقَرًا وَوَقْرِيوَقْرٌ وَقَارَةٌ وَوَقَارًا) الرَّجُلُ: سنجیدہ و صاحب وقار ہونا۔ ثابت رہنا۔ وَقَرَّ يَقَرُّ وَقَرًّا وَوَقُورَةً فِئِي بَيْتِهِ: وقار کے ساتھ بیٹھنا۔ وَقَرَّتْ تَقِرُّ وَوَقِرَتْ تَوْقَرُ وَقَرًّا وَوَقِرَتْ أَذُنُهُ: بوجھل ہونا یا بہرا ہونا۔ صفت مَوْقُورَةٌ وَقَرَّ الشَّيْخُ: تَعْلِيمٌ كَرَمًا..... فَلَانًا: زخمی کرنا..... الدَّائِبَةُ: آرام دینا..... لِلشَّيْءِ: نشان بنانا۔ کہا جاتا ہے "وَقَرَّ تَسْنِي الْأَسْفَارُ": سفر نے مجھ کو مشتاق بنا دیا۔

أَوْقَرُ أَيْقَارٌ أَوْ قِرَّةٌ (شَاذٌ) الدَّائِبَةُ: چوپایہ پر بھاری بوجھ لادنا۔ أَوْقَرَتْ السُّخْلَةَ وَوَقِرَتْ: سُست پھل دار ہونا۔ صفت مَوْقُورٌ وَمَوْقُورَةٌ وَمَوْقُورَةُ الدُّيْنِ فَلَانًا: قرض کا گرانبار کرنا۔

تَوَقَّرُ وَاتَّقَرُ: یاد وقار ہونا۔ بردبار ہونا۔ اسْتَوْقِرَتْ اسْتَيْقَارًا الْأَيْلُ: اُونٹ کا موٹا ہونا۔ بھاری بوجھ اٹھانا۔ اسْتَوْقِرَ وَقِرَةً طَعَامًا: بوجھ بھرا کھانا لینا۔

السُّوقِرُ: موص۔ پنڈلی کا شگاف۔ پتھر یا ہڈی وغیرہ میں گڑھ یا شگاف۔ ج وَقُورٌ کہا جاتا ہے "فِي صَدْرِهِ وَقْرٌ" اس کے دل میں کینہ ہے۔

السُّوقِرُ: بھاری بوجھ۔ پانی سے بوجھل بادل ج أَوْقَارُ.

السُّوقِرَةُ: اسم مرہ۔ پتھر یا ہڈی کا گڑھ یا شگاف۔ وَقِرَةُ الدُّنْهَرِ: زمانہ کی سختی ج وَقِرَاتُ الْوَقِرَاتِ: نشانیاں۔

الْقِرَّةُ: موص۔ بوجھ۔ بکریوں کا ریوڑ۔ اہل و عیال۔ بہت بوڑھا۔ بیماری کا وقت۔ ج قِرَاتُ.

السُّوقِرِيُّ: بکری بھینروں کا چرواہا۔ یا ان کا جمع کرنے والا۔ گدھوں کا مالک۔

السُّوقَارُ: سنجیدگی۔ بردباری۔ عظمت (.....) وَالسُّوقِرُ مِنَ الرِّجَالِ: سنجیدہ و صاحب وقار مرد۔

السُّوقُورُ (مذکر مؤنث) صاحب وقار۔ ج

وَقْرٌ. السُّوقِيرُ: بھٹی ہوئی ہڈی۔ بھینروں کا ریوڑ۔ لوگوں کی جماعت۔ ذلیل بے عزت (.....) وَالسُّوقِيرَةُ: پتھر کی چٹان کا بڑا گڑھ جس میں پانی جمع ہو جائے أَذُنٌ وَقِيرَةٌ: بہرا کان یا بوجھل کان۔

السُّوقِيرُ: مضع۔ تجربہ کار۔ عقل مند جس کو زمانہ نے تجربہ کار بنا دیا ہو۔

السُّوقِيرُ: پہاڑ کے پہلو میں نرم جگہ۔ السُّوقِيرُ مِنَ السُّخْلِ: بہت پھل دار ج موقیر.

وَقَسَّ يَقْسُ وَقَسًا الْجُزْبُ فِي بَدَنِهِ: کھجلی پھیلنا..... السَّفَاحِشَةُ: بری بات کا ذکر کرنا..... هُ بِالْمَكْرُوهِ: تہمت لگانا..... الْجِلْدَةُ: کھال پھیلنا۔ وَقَسَّ الْأَيْلُ: کھجلی لگانا۔

الْأَوْقَاسُ: مختلف لوگوں کی جماعت۔ وَقَسَّ يَقْسُ وَقَسًا الرَّسْمُ: نشان کا مٹنا..... مِنْ فَلَانٍ: عطیہ پانا (.....) وَأَوْقَشَ لَهُ بَشِيًّا: کچھ تھوڑا سادہ بنا۔

تَوَقَّشَ: بلنا۔

السُّوقَشُ وَالسُّوقَشَةُ وَالسُّوقَشَةُ: آواز۔ حرکت۔ الوَقَشُ: عیب۔

السُّوقَشُ وَالسُّوقَشُ: آگ لگانے کے لئے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں۔

الْأَوْقَاشُ: مختلف قسم کے لوگوں کا گروہ۔ وَقَصَّ يَقْصُ وَقَصًّا غَنَقَةً: گردن کا ٹوڑ دینا

وَقَصَّتِ الْعُنُقُ: گردن کا ٹوٹ جانا..... بِهِ الدَّائِبَةُ: گرا کر گردن توڑنا۔ وَقَصَّ الشَّيْءُ: عیب لگانا۔ گھٹانا..... رَأْسَهُ: نیچے سے دبانا۔

وَقَصَّ الرَّجُلُ: ٹوٹی ہوئی گردن والا ہونا۔ صفت مَوْقُوصٌ.

وَقَصَّ يَقْصُ وَقَصًّا: پیدائشی چھوٹی گردن والا ہونا۔ صفت أَوْقَصٌ مَوْنِثٌ وَقَصَاءُ ج وَقَصَّصٌ اور کبھی گردن کی صفت میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے "عَسَقٌ أَوْ قَصٌّ وَعَسَقٌ وَقَصَاءٌ".

وَقَصَّ غَنَقَةً: گردن توڑ دینا..... عَلَى النَّارِ:

چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈالنا۔
 أَوْقَصَهُ: أَوْقَصَ: بنا دینا (دیکھئے اَوْقَصَ)
 تَوَقَّصَ البَعِيرُ: اونٹ کا چلنے میں زور سے
 قدم ڈالنا۔
 تَوَاقَصَ: کوتاہ گردن کی مشابہت کرنا۔
 الوَقْصُ: مص۔ عیب..... فی العَرُوضِ: علم
 عروض کی اصطلاح میں حرف ثانی محترک کا
 گردینا جو حرف کی ایک قسم ہے۔
 السُّوقِصُ: مص۔ آگ سلگانے کی چھوٹی
 چھوٹی لکڑیاں جو اَوْقَاصُ کہا جاتا ہے "أَتَانَا
 أَوْقَاصُ مِنْ بَنِي فَلَانٍ" ہمارے پاس بنو
 فلاں کے قبائل کے کچھ لوگ آئے۔
 السُّوقِصُ: برندوں کے شکار کا جال۔ ج
 وَقَاصِيصُ: کہا جاتا ہے "مُخَذًا وَقْصُ
 الطَّيْرِ يُقْفِنُ" دو راستوں میں سے قریب کا
 راستہ اختیار کرو۔
 السُّوقِصَةُ: گردن کی جڑ کی ہڈی کا سرا۔ ج
 وَقَانِصُ.
 السُّوقِصُوصُ: متع..... فِي العَرُوضِ:
 اصطلاح شعراء میں وہ وزن جس میں حرف
 ثانی محترک گردایا گیا ہو۔
 وَقَطَهُ يَقْطُهُ وَقَطًا: پچھاڑنا۔ مار کر کے ست
 کر دینا۔ وَقَطَ فِي زَابِيهِ: بوجھ محسوس کرنا۔
 کہا جاتا ہے "أَكَلْتُ طَعْمًا وَقَطِيًّا" میں
 نے کھانا کھایا اور اس نے مجھے ست بنا دیا
 اور سلا دیا۔
 وَقَطَ الصَّخْرَ: چٹان کا گڑھے والا ہونا۔
 اسْتَوْقَطَ اسْتَيْقَاطًا الْمَكَانَ: لوگوں یا
 جانوروں کے رونے کی وجہ سے گڑھے
 والی ہونا۔
 الوَقْطُ والْوَقِيطَةُ: گڑھا جس میں بارش کا
 پانی جمع ہو جائے جَوَاقِطُ.
 الوَقِيطُ: گڑھا جس میں بارش کا پانی جمع ہو
 جائے جَوَاقِطُ ووقطان وواقط..... ماریا
 مرض یا شلم بیری کی وجہ سے ست۔ بے
 خوابی کی وجہ سے کسل مند جَوَقِطِي وواقطي
 مَوْنَتٌ وَقِيطٌ (مذکر کی مانند)

وَقَطَهُ يَقْطُهُ وَقَطًا: مہلک ضرب مارنا۔ وَقَطَ
 عَلَى الْأَمْرِ: بیشکلی کرنا۔
 الوَقِيطُ: وہ شخص جو اٹھنے پر قادر نہ ہو۔
 وَقَعَ يَقَعُ وَقُوعًا الشَّيْءُ مِنْ يَدَيْ: گرتا۔
 الْحَقُّ: ثابت ہونا..... الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ:
 واجب ہونا..... الْإِبِلُ: اونٹ کا بیٹھنا.....
 السُّدُوبُ: جانوروں کا بیٹھنا..... رَبِيعٌ
 بِالْأَرْضِ: موسم خریف میں پہلی بار بارش ہونا
 اور اس کے لئے سَقَطٌ کا لفظ نہیں بولا جاتا
 الطَّيْرُ عَلَى شَجَرٍ أَوْ أَرْضٍ: پرندہ کا
 درخت یا زمین پر اترنا۔ صَفْتٌ وَقُوعٌ
 وَقُوعٌ..... فِي الشَّرْبِ: چال میں پھینسا
 فِي أَرْضٍ فَلَاةٌ: داخل ہونا..... الرَّجُلُ
 فِي عَمَلِهِ: کام میں نرمی اختیار کرنا..... فِي
 الْعَمَلِ: شروع کرنا..... الْكَلَامُ فِي نَفْسِهِ:
 اثر کرنا..... الْأَمْرُ: حاصل ہونا۔ کہا جاتا ہے
 "وَقَعَ لَهُ وَقَعٌ" اس کو ایک حادثہ پیش آیا
 (..... وَقُوعًا وَقِيعَةً فِي فَلَانٍ: گالی دینا۔
 عيب نکالنا۔ غیبت کرنا۔)..... وَقَعًا إِلَى
 كَذَا: جلدی جانا..... مِنْ كَذَا وَعَنْ كَذَا:
 بازرہنا۔ الگ ہونا..... السُّطْلُ بِالْمِيقَةِ:
 تیز کرنا۔ صفت مفعولی وَقِيعٌ.....
 البَعِيرُ: دونوں رانوں کے کناروں پر گول
 داغ لگانا..... وَقَعًا وَقِيعَةً بِالْعَدُوِّ: دشمن
 کے مقابلہ میں مبالغہ کرنا اور کہا جاتا ہے
 "وَقَعَ عِنْدَ فَلَانٍ مَوْقِعًا حَسَنًا" اس نے
 فلاں کے نزدیک حصہ اور مرتبہ پایا "وَوَقَعَ
 الْأَمْرُ مِنْهُ مَوْقِعًا حَسَنًا" اس سے
 کام اچھے یا برے موقع میں واقع ہوا۔
 "وَفَلَانٌ لَيْسَ وَلَا يَسْقَعُ" فلاں کام کے
 قریب ہوتا ہے اور عمل نہیں کرتا "وَهَذِهِ نَعْلٌ
 لَا تَسْقَعُ عَلَيَّ رَجُلِي" یہ جو تاج میرے پیر کے
 مناسب نہیں۔
 وَقَعَ فِي يَدَيْهِ: نادم وپشیمان ہونا۔ مانند
 سَقَطَ فِي يَدَيْهِ (کے)
 وَقَعَ يَوْقَعُ وَقَعًا: ننگے پیر ہونا۔ سخت زمین یا
 پتھروں کی وجہ سے قدم کا درمند ہونا۔ صفت

وَقَعَ.
 وَقَعَ الْمَوْسِرُ ظَهَرَ الْبَعِيرِ: نشان ڈالنا.....
 السَّمَطُ الْأَرْضُ: کہیں کہیں اگانا..... الْغَيْدُ
 أَوْ الْفَرْمَانُ: شاہی مہر لگانا..... الْكِتَابُ أَوْ
 السِّبْطُ: خط یا چیک پر دستخط کرنا.....
 الْكَاتِبُ فِي الْكِتَابِ: ازادہ کو حذف کر
 دینا..... الْإِبِلُ: اونٹ کا بیٹھنا..... وَقَعَ ظَنَّهُ
 عَلَى الشَّيْءِ: اندازہ کرنا..... عَلَى فَلَانٍ:
 گمان کرنا..... السُّيْفُ عَلَى السُّيْفِ: تیز
 کرنے کے لئے متوجہ ہونا..... الْحَجَّازَةُ
 حَافِرَةٌ: کھر کے سرے کو کھولنے کے لئے کر دینا
 الْقَوْمُ: آخرا ت میں آرام کے لئے
 اتر پڑنا۔
 وَقَعَهُ وَقَعًا وَمُوقِعَةً: جنگ کرنا۔ وَقَعَ
 الْأَمْرُ: امور کے قریب ہونا اور ان کو
 سر انجام دینا۔
 أَوْقَعَهُ إِبْقَاعًا: واقع کرنا۔ أَوْقَعُ بِالْعَدُوِّ:
 دشمن کے مقابلہ میں مبالغہ کرنا..... بِهِ الشَّرُّ:
 بدی میں پھنسا دینا..... السُّهْرُ بِهِ: زمانہ کا
 سختیاں ڈالنا..... السُّوْصَةُ: پانی روک لینا
 الْمَغْنَى: مرنٹھیک کرنا۔
 تَوَقَّعَ الْأَمْرُ: حاصل ہونے کی امید لگانا۔
 تَوَاقَعَ الْأَعْدَاءُ: دشمنوں کا باہم جنگ کرنا۔
 ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔
 اسْتَوْقَعَ الْأَمْرُ: حاصل ہونے کی امید رکھنا۔
 خَوْفٌ كَمَا..... السُّيْفُ: تلوار کا تیز کرنے
 کے قابل ہونا۔
 الْوَقْعُ: مص۔ کسی چیز کی ضرب کی آواز۔ تم
 کہتے ہو "سَمِعْتُ وَقَعَ حَافِرُ الدَّابَّةِ وَوَقَعَ
 الْمَطَرُ" میں نے چو پاپیہ کے کھر کی اور بارش
 کی آواز سنی۔ پہاڑ کی بلند جگہ۔ بارش کی
 امید دلانے والے بادل۔ چھوٹی ٹنگریاں
 واحد وَقَعَةٌ کہا جاتا ہے "الْفَلَانُ وَقَعَ عِنْدَ
 الْأَمِيرِ" امیر کے نزدیک فلاں کی قدمرو
 منزلت ہے۔
 الْوَقْعُ: مص۔ چھوٹی ٹنگریاں واحد وَقَعَةٌ.
 الْوَقْعُ: بارش کی امید دلانے والا بادل۔

السَّوْفَةُ. وقع: کا اسم مرہ۔ لڑائی کی دھکا بیل۔ آخری رات کی نیند۔ دن میں ایک بار کی تضاء حاجت۔ وَقَع الطَّائِرُ سے اسم جب کہ وہ اڑتے اڑتے نیچے اترے۔ وَقَعَةُ السَّيْفِ: تلوار کا پڑنا۔ ج وَقَعَات.

الْوُقُوعَةُ. وقع: کا اسم نوع۔ التَّوْقِيعُ: محس۔ کسی چیز کا وہم و گمان کرنا۔ آخری رات میں اترنا۔ کتاب سے فراغت کے بعد شمیم لگانا۔ تَوَقُّيعُ السُّلْطَانِ: شاہی مہر۔ ج تَوَقُّيع.

الْإِنْقَاعُ: محس۔ سروں کی موزونیت۔ الوَاقِعُ: فنا۔ طائر واقع: درخت پر یا گھونسلے میں رہنے والا پرندہ ج وَقُّوعٌ وَوُقُوعٌ کہا جاتا ہے زَجَلٌ وَاقِعُ الطَّيْرِ: نرم طبیعت مرد۔ النَّسْرُ الوَاقِعُ: بنات النعش کے قریب ایک ستارہ۔

السَّوَابِقَةُ. واقع: کا مؤنث۔ لڑائی کی دھکا بیل۔ مصائب زمانہ میں سے ایک مصیبت۔ قیامت زَجَلٌ وَاقِعَةٌ: بہادر مرد۔ وَقَاعٌ: ہر وزن قسطام: دونوں راتوں کے کناروں پر گول داغ۔

السَّوَابِقَةُ: زمین کی تختی جس کی وجہ سے پانی جذب نہ ہو سکے۔ وَقَاعَةُ النَّسْرِ: پردہ لٹکانے میں زمین پر پڑنے کی جگہ۔

السَّوَابِقَةُ: تیز کیا ہوا پھل۔ پتھروں سے گڑ کھایا ہوا کھر۔ سخت جگہ جو پانی کو جذب نہ کرے ج وَقُّوعٌ.

السَّوَابِقَةُ: لڑائی اور مقاتلہ کا تصادم۔ لوگوں کی غیبت۔ گڑھا جس میں پانی جمع ہو جائے ج وَقَاعٌ وَقَائِعٌ. وَقِيْعَةُ الطَّائِرِ: وہ جگہ جہاں پرندہ کے اترنے کی عادت ہو۔ وَقَائِعُ الْعَرَبِ: عرب کی لڑائیاں۔ الوَقَاعُ وَالسَّوَابِقَةُ: لوگوں کی غیبت کرنے والا۔

السَّوَابِقَةُ: گرنے کی جگہ ج وَقَاعٌ. وَقَائِعُ الْقَطْرِ: بارش ہونے کی جگہ۔ وَقَائِعُ الْقِتَالِ:

جگہ کی جگہ۔ مَوْقِعَةُ الطَّائِرِ: پرندے کے اترنے کی جگہ ج مَوَاقِعُ.

السَّيْفَةُ: ہتھوڑا۔ دھوبی کا تختہ جس پر کپڑے دھوتا ہے۔ چھری وغیرہ پر سان رکھنے کا لمبا پتھر۔ مَيْسِقَةُ الطَّائِرِ: پرندے کے اترنے کی جگہ اور اس کی الفت کی جگہ ج مَوَاقِعُ.

السَّوَابِقَةُ: فنا۔ آہستہ قدم رکھنے والا۔ مہر شاہی کا محافظ۔ شاہی فرمان لکھنے والا۔

السَّوَابِقَةُ: مفتح۔ مصائب زدہ۔ رہ چلتا راستہ۔ تیز کی ہوئی چھری۔ السَّوَابِقَةُ: مفتح۔ پتھروں سے رگڑ کھا کر نکلے نکلے ہونے والا۔ قَدَمٌ مَوْقُوعَةٌ: سخت قدم۔

وَقَفَّ يَقِفُ وَقْفًا وَوَقُوفًا: ٹھہرنا۔ چپ چاپ کھڑا ہونا۔ فِي الْمَسْأَلَةِ: شک کرنا القَارِي عَلَى الْكَلِمَةِ: وقف پڑھنا۔ کلمہ کے آخری حرف کو ساکن پڑھنا۔ وَقَفَّ عَلَى الْأُمُورِ: سمجھنا۔ مطلع ہونا۔ وَقْفًا الذَّائِبَةُ: ٹھہرانا کھڑا کرنا۔ عَنِ الشَّيْءِ: منع کرنا۔ السَّذَارِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: وقف کرنا۔ کہا جاتا ہے "وَقَفَّهَا لَهُ وَعَلَيْهِ" اس نے اس کو اس کے لئے وقف کیا "وَقَفَّ الْأَمْرُ عَلَى حُضُورِ فُلَانٍ" اس نے معاملہ کو فلاں کی موجودگی میں ملتوی کیا۔ عَنِ الذَّنْبِ: خبردار کرنا۔ الْقَبْلُ بِالْمِغْفَافِ: ہانڈی کے جوش کو ڈونٹی سے کم کرنا۔ عَلَيْهِ: معائنہ کرنا۔ (وَقِيْفِي) النَّصْرَانِي: گرجا کی خدمت کرنا۔ وَقَفَّه: کھڑا کرنا۔ الثُّرْمُنُ: ڈھال کے گرد اگردلوے وغیرہ کا حلقہ بنانا۔ السَّوَابِقَةُ: عورت کو کنگن پہنانا۔ السَّرِيحُ: زمین کی اس طرح مرمت کرنا کہ پیچھے کو زخمی نہ کرے۔

السَّوَابِقَةُ: بیان کرنا۔ القَارِي: وقف کے مواقع بنانا۔ الْجَيْشُ: ایک دوسرے کے

پیچھے کھڑا ہونا۔ وَقَفَّتِ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا بِالسَّحْنَاءِ: عورت کا ہاتھوں کو نکلنے دار رکھنا۔ وَقَفَّتِ الذَّائِبَةُ: ٹھہرانا۔ کھڑا کرنا۔ فَلَانًا: عَلِيٌّ ذَنْبُهُ: خبردار کرنا۔

وَأَقْفُسُهُ مَوَاقِفُهُ وَوَقَائِفُهُ فِي الْحَرْبِ: الْخُصُومَةُ: ایک دوسرے کے مقابل کھڑا ہونا۔ عَنِ عَلِيٍّ كَذَا: ثابت قدم رہنے کو کہنا۔

أَوْقَفَهُ: کھڑا کرنا۔ أَوْقَفَ السَّذَارِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: وقف کرنا۔ السَّجَارِيَةُ: لڑائی کو کنگن پہنانا۔ عَنِ الْأُمُورِ: بازرہنا اور چھوڑ دینا۔ تَوَقَّفْتُ فِي الْمَكَانِ: ٹھہرنا۔ عَلِيٌّ الْأُمُورِ: قائم و دائم رہنا۔ عَنِ كَذَا: رکنا۔ باز رہنا۔

تَوَاقَفَ الْقَوْمُ فِي الْحَرْبِ: ایک دوسرے کے مقابل کھڑا ہونا۔ اسْتَوْقَفَهُ: کھڑا ہونے کو کہنا۔

الْوَقْفُ: محس۔ کلمہ کو مابعد سے قطع کرنا۔ عِنْدَ أَهْلِ الْعُرُوضِ: ساتویں متحرک کو ساکن کرنا جسے مَفْعُولَاتٌ کی تا کو ساکن کرنا۔ الوَقْفُ: کنگن یا ہاتھی دانت کا کنگن۔ مِنَ الثُّرْمُنِ: سیٹنگ یا لوہے کی بنی ہوئی ڈھال کے گرد کا حلقہ۔ وَالْوَقْفُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: کسی چیز کی منعت کو اللہ کے راستہ میں تصدق کرنا۔ اور اصل کو اپنی ملک میں یا اللہ کی ملک میں رکھنا۔ موقوف چیز کو بھی وقف کہتے ہیں۔ ج أَوْقَافٌ وَوَقُوفٌ.

السَّوَابِقَةُ: اسم مرہ۔ شک۔ مِنَ الثُّرْمُنِ: ڈھال کے گرد جو لوہے یا سیٹنگ کا بنا ہوا ہو۔

السَّوَابِقَةُ: بھگایا ہوا شکار جو تھک کر ٹھہر جائے۔ ہر وہ مقام جہاں کتے اپنے مالکوں کو روک دیں۔

السَّوَابِقَةُ: محس۔ جوئے کے تیر کا نشان۔ کنگن کی جگہ کی سفیدی۔ جانوروں کی ٹانگوں میں کالی دھاری یا کنگن کے مانند دھاری۔

الواقف: فا- تَوَقَّفْتُ وَوَقُفْتُ عِنْدَ
الْفُقَهَاءِ: فی سبیل اللہ وقف کرنے والا۔
الوقاف: دیروستی کرنے والا۔ لڑائی سے
رکنے والا۔
الوقافة: خوفزدہ جو ظہر جائے اور پیش قدمی
نہ کرے۔
الموقف والموقفة: بھرنے کی جگہ۔
موقف المسئلة المتحجبة: پردہ نشین
عورت کے ہاتھ اور آنکھیں اور وہ اعضاء
جن کا ظاہر کرنا ضروری ہو۔ الموقفان: دو
رگوں کا نام ہے جو دہری کی ہڈی کے ارد گرد
ہوتی ہیں اگر ان میں سوج ہو جائے تو انسان
اُٹھنے پر قادر نہیں ہوتا اور اگر کات دی
جائیں تو مر جاتا ہے۔
الموقف: منع..... من الدواب: دونوں
دست پر گول داغ کیا ہوا۔ حضرع موقفت:
تھن جس پر اس بندش کا اثر ہو جو اس لئے
باندھ دیا جاتا ہے تاکہ بچہ دودھ نہ پئے۔
رجل موقف: آزمودہ کار مرد۔ رجل
موقف علی الحق: حق کا فرما نہ دار مرد۔
ذابة موقفة: کالی دھاری کی ٹانگوں والا
چوپایہ۔
الميتف والميتاف: لکڑی جس سے ہانڈی
کو ہلاتے ہیں اور اہال کو کم کرتے ہیں۔
ذوبی۔
الموقوف: منع..... عند الفقهاء: وقف۔
وقل يقل وقل: ایک ٹانگ پر کھڑا ہونا.....
وتوقل فی الجبل: پہاڑ پر چڑھنا۔
السوقل: مصل۔ گوگل کا درخت یا اس پھل
واحد ووقلة ج اوقال کہا جاتا ہے "رجل
وقلة الرأس": بہت چھوٹے سر کا مرد۔
الوقلة: گوگل کے پھل کی گھٹلی ج وقول۔
الوقلي: پتھر۔ شاخوں کی جڑیں جو اچھی طرح
نہ کالی گئی ہوں اور چڑھنے والا آسانی سے
بیر رکھ کر چڑھ سکے..... (السوقل والوقل)
من الخيل: چڑھنے والا گھوڑا۔
فرس نوقلة: اچھی طرح سے پہاڑ پر چڑھنے

والا گھوڑا۔
وقم يقم فما الذابة: جانور کا لگام کھینچنا۔
..... القدر: ہانڈی کے اہال کو ٹھنڈا کرنا۔
(..... وأوقم ووقم) الرجل: مغلوب کرنا
اور بڑے طریقے سے ہٹانا۔
وقمت الأرض: گھاس کا کھایا جانا اور
روندا جانا۔
توقم الرجل: دھکاتا۔ توقم الشئ: قصد
کرنا..... الصيد: شکار کو مار ڈالنا.....
الكلام: یاد کرنا..... فیہ: طول کرنا۔
الوقام: کوڑا۔ تلوار۔ لاش۔ رسی۔
الموقوفوم: منع۔ عملین۔ حاجت سے ہٹایا
ہوا۔
أوقن إيقانا وتوقن: گھونسلے سے شکار کرنا۔
توقن الوغل فی الجبل: پہاڑی بکرے کا
پہاڑ پر چڑھنا۔
الموقنة والأقنة: گھونسلے۔ آشیانہ ووقنات
واقنات۔
الموقنة من الجوارى: پردہ نشین۔
وقنة ووقنة يقنه وأيقنه واميقنه
لفلان: اطاعت کرنا۔ ايقنه عنہ: باز رہنا۔
الوقهية: اطاعت۔ فرمانبرداری۔
الواقية: گر جا کا منتظم۔ اور بعضوں کے
زردیک واقفہ بالفاء ہے۔
وقوق الكلب: کتے کا بھونکنا..... الطائر:
پرندہ کا چچھانا..... الرجل: کمزور ہونا۔
الوقوق: ایک قسم کا پرندہ جو اپنے انڈے خود
نہیں بیٹا بلکہ دوسرے پرندوں کے گھونسلوں
میں رکھ دیتا ہے اور اس کی بہت سی قسمیں
ہیں۔
الوقواق: بزدل۔
الوقواقه من الرجال: بکواس کرنے والا
اور ایسا ہی امراة وقواقه۔
وقى يقى وقاية ووقيا واقية ووقى فلانا:
حفاظت کرنا۔ تکلیف سے بچانا۔ تم کہتے ہو
"وقية الله السوء ومن السوء" اللہ اس کو
بُرائی سے بچائے..... وقيا ووقيا) الامر:

درست کرنا۔

وقى يقى وقيا ووقى يوقى وقى الفرس
من الجفا: گھوڑے کے کھر کا گھسا۔
تقى يتقى تقى وتقاه وتقية: پرہیز کرنا۔
اتقى إتقاء وتوقى توقيا فلانا: پرہیز کرنا۔
خوف کرنا۔ واتقى إتقاء: پرہیز گار ہونا۔
واتقىنا به: ہم نے دشمن سے حفاظت کے
لئے اس کو اپنے آگے کر لیا۔ کہا جاتا ہے "ما
اتقاه لله" وہ اللہ سے کس قدر ڈرنے والا
ہے۔

الوقاء والوقاء والوقاية والوقاية الوقاية:
کسی چیز کی حفاظت کا ذریعہ۔

التقوى: پرہیز گاری۔ اللہ کا خوف اور اس
کی اطاعت کے مطابق عمل۔

التقاء: پرہیز گاری۔ تقى.
التقى إتقاء وتقواء والمتقى:
پرہیز گار۔

سرج وقى وواق: زخمی نہ کرنے والا
زین۔ فرس واق: پاؤں کی تکلیف کی وجہ
سے چلنے سے ڈرنے والا گھوڑا۔

الواقى والواق: بکسر القاف۔ کوا۔ اور
بتول بعض لثورا۔

الواقية: مصل۔ واقى: کامونٹ ج واقیات
وأواق (أواق) میں پہلے واؤ کو کمزور سے بدل
دیا گیا ہے اس کے لئے کہ دو واؤ کا جمع ہونا
مکروہ ہے)

رجل وقاه: بہت پرہیز کرنے والا مرد۔
الأوقية ج أواقى وأواق والوقية ج وقى
ووقانا: طفل کا بارھواں حصہ۔ ایک وزن جو
سات احتمال کا ہوتا ہے۔

الموقى: منع۔ بہادر۔

أوكاه إنكاه: کسی کے لئے نکاح لگانا۔ أوکا
على الشئ: نیک لگانا۔ سہارا لینا۔

تكى نكنا تكا الرجل: نکاح لگانا۔
وأكاه أوكاه ووكاه على نديه: دونوں
ہاتھوں کو دماغ کے لئے اٹھانا اور پھیلاتا۔

إنكاه إنكاه: نکاح لگانے والے کی بیعت پر

کسی چیز کو ڈالنا۔ ٹیک لگانے کے لئے کسی چیز کو بچھانا۔
 اِنکاء اِتکاء عَلی السَّریر: سہارے کر بیٹھنا۔ پیٹھ یا پہلو کا کسی چیز سے سہارا لگانا۔
 عَلی عَصَا: سہارا لینا۔ الْقَوْمُ عِنْدَهُ: کھانا۔
 تَوَكَّأ عَلی عَصَا: سہارا لینا۔ ٹیک لگانا۔
 اِلْتِکَاء: مہم۔ عِنْدَ اَهْلِ الْعُرُوض: اہل عروض کی اصطلاح میں حشو و فضول۔
 السُّکَاة: ٹیک لگانے کی چیز جیسے لاشیٰ کمان وغیرہ ست۔ بہت ٹیک لگانے والا مرد۔
 السُّکَاة: تکیہ لگانے کی چیز جن مکتات و کتب ینکب و کتباً: سیدھا کھڑا ہونا۔ عَلی الْأَمْرِ: مداومت کرنا۔ وَتَجَسَّأ وَتُكْوِنَا وَتُكْبَانَا: آہستہ چلنا۔
 وَكَبَّ يُوَكِّبُ وَتَكْبًا وَوَكَّبَ التَّمْرُ: پختہ ہو کر رنگ کالا پڑنا۔ وَكَبَّ الْقَوْبُ: میلا ہونا۔
 وَتَكَّبَ النَّاقَةُ: بھنوں پر متوسط رسی باندھنا۔
 وَاَكْبَبَ مُوَاكِبَةً عَلی الْأَمْرِ: مداومت کرنا۔
 السُّوَكْبُ: جلوس میں ساتھ ساتھ چلنا۔
 أَوْكَبَ اِبْنُکَابَا: جلوس کے ساتھ رہنا۔
 الطَّائِنُ: پرندہ کا اڑنے کے لئے آمادہ ہونا یا اترتے ہوئے پر پھڑ پھڑانا۔ عَلی الْأَمْرِ: مداومت کرنا۔ اُغْضِبْنَا: غضبنا۔
 الْوَاكِبَةُ: جانور کی ایک ٹانگ۔
 الْوُكْبَابُ: بہت ٹھمکین۔
 طَبِیَّةٌ وَتُكْوِبُ: اپنے گلے کے ساتھ رہنے والی برتی۔
 السُّوَكْبُ: سواریوں یا پیدل چلنے والوں کی جماعت۔ مَن مَوَاكِبُ وَتَمَّتْ یَنْکَبُ وَتَمَّتَا: چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر چلنا۔ الدَّائِبَةُ: چوپایہ کا جلدی جلدی اٹھانا اور رکھنا۔ السَّقْدُخُ: پیالہ بھرنا۔
 السُّکْسَابُ: کتاب میں نقطہ لگانا۔ فِی الشَّیْ: نشان لگانا۔
 وَتَمَّتْ تَوَكَّبْنَا الْقَرْوَةَ: مشک بھرنا۔ السُّرُ: چٹکی کا رنگ ظاہر ہونا۔

الْوُكْتُ: مہم۔ تھوڑی چیز۔
 الْوُكْتُةُ: داغ۔
 الْوُكْتُاتُ: سستی سے چھوٹے چھوٹے قدم سے چلنے والا۔
 الْوُكْتُةُ: چغل خوری۔
 الْمُوَكُّوتُ: منع۔ سخت ٹھمکین۔
 اِسْتَوَكَّتْ اِسْتِیْکَاثًا: ناشتہ کرنا۔
 الْوُكَاثُ وَالْوُكَاثُ: ناشتہ۔
 وَتَكْحَهُ یَكْحَهُ وَتَكْحًا بِرَجُلٍ: سخت روندنا۔
 اَوْكَحَ اِبْنُکَاخَا: ٹھکانا۔ منع کرنا اور سائل پر سختی کرنا۔ الْعَطِیَّةُ: کاشا۔ عَنِ الْأَمْرِ: رکنا۔ بَارِزًا: فِی الْخَفْرِ: کھودنے میں پتھر یا سخت زمین پر پہنچنا۔
 اِسْتَوَكَّحَتْ اِسْتِیْکَاخَا الْفَرَاخُ: چوزوں کا مونا ہونا۔ اور کہا جاتا ہے "سَأَلْتُهُ فَاَسْتَوَكَّحَ" اس نے اس سے مانگا اور وہ دینے سے رک گیا۔
 الْاَوْكَحُ: پتھر۔ سخت جگہ مٹی۔
 الْوُكْحُ: موٹے چوزے۔ وَاحِدُ الْوَاكِحِ یَا الْوُكْحُجُ.
 وَتَكْدُ یَكْدُ وَتُكْوِذًا بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ (وَتَكْدًا) الشَّیْ: قصد کرنا اور کہا جاتا ہے "وَتَكْدُ وَتَكْدُهُ وَتَكْدُ الْأَمْرُ" مشق کرنا۔ (وَوَكْدُ وَوَكْدًا وَوَكْدًا وَوَكْدًا) الْعَهْدُ اَوْ السُّرُجُ: مضبوط کرنا۔ باندھنا (وَإِذْ اِصْبَحَ) تَوَكَّدَ وَتَوَكَّدًا: مضبوط ہونا۔ باندھا جانا۔
 الْوُكْدُ: مہم۔ مراد۔ قصد۔ ارادہ۔
 الْوُكْدُ: کوشش۔
 الْوُكْدَادُ وَالْاِکْدَادُ: رسی یا تسمہ جس کو دو حصے کے وقت گائے کی ٹانگ میں باندھتے ہیں۔
 وَتَوَكَّدَ: الْوُكْدُ وَالْاِکْدُ: سخت۔ مضبوط۔ ثابت۔
 الْاَوْكَدُ وَالْاِکْدُ: اسم تفضیل۔
 الْفُکَاکِیْدُ وَالْفَاکِیْدُ وَالْمِیَاکِیْدُ: تسے جن سے زین کے اگلے حصے کو باندھتے ہیں۔
 ظاہر یہی ہے کہ ان الفاظ کے واحد نہیں۔

الْمَوْكِبُ: کام کے لئے مستعد و آمادہ۔
 وَتَكْرُ یَكْرُو تَكْرًا اَوْ وَتُكْوِرُ الطَّائِنُ: گھونسلے میں داخل ہونا۔ السُّطْبِيُّ: ہرن کا کودنا (وَتُكْرَةُ وَتُكْرًا) کسی کے ناک پر مکامارنا۔ (.....) وَتُكْرًا وَتُكْرًا اَوْ تُكْرًا اِلَانَاءُ: برتن بھرنا۔
 وَتُكْرًا وَتُكْرًا الطَّائِنُ: پرندہ کا گھونسلہ بنانا۔
 تَوَكَّرَ الصَّبِيُّ: بچے کا شکم بھر ہونا۔
 السُّطَائِنُ: پرندہ کا بھرے ہوئے پونے والا ہونا۔ کہا جاتا ہے "فُشِرَبَ حَتَّى تَوَكَّرَ" اس نے پیا یہاں تک کہ آسودہ ہو گیا۔
 الْوُكْرُ: مہم۔ گھونسلہ ج اَوْ تُكْرًا اَوْ تُكْرًا وَتُكْوِرُ (.....) وَالْوُكْرُ وَالْوُكْرِيُّ: دوڑ کی ایک قسم ناقہ وَتُكْرِي: تیز رفتار اونٹنی۔
 الْوُكْرَةُ: اسم مرہ۔ گھونسلہ ج اَوْ تُكْرًا (.....) وَالْوُكْرَةُ وَالْوُكْرِيُّ وَالْوُكْرِيَّةُ: عمارت سے فراغت کی خوشی کی دعوت۔
 وَتُكْرَةُ یَكْرُهُ وَتُكْرًا: بنانا۔ مکامارنا۔ وَتُكْرُهُ بِالسُّرْمِجِ: نیزہ مارنا۔ وَتُكْرُ السُّرْمِجِ فِی الْأَرْضِ: نیزہ کو زمین میں گاڑنا۔ الْقَرْوَةُ: مشک بھرنا۔ اَنْفَهُ: ناک توڑ دینا۔ وَتُكْرُ فَلَانٌ: دوڑنا۔
 تَوَكَّرَ لِلْأَمْرِ: آمادہ ہونا۔ عَلی عَصَا: لاشیٰ پر ٹیک لگانا۔ مَن الطَّعَامُ: حکم بھر ہونا۔
 الْوُكْرَارُ وَالْحَمْرُ: کا اسم مبالغہ۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ وَتُكْرًا لِكَاثَرٍ كَانَتْ حَیْةٌ لِنَاثِرٍ"۔
 نَاقَةٌ وَتُكْرِي: پتہ قد اونٹنی۔
 وَتُكْسُ یَكْسُ وَتُكْسًا الشَّیْ: گھٹنا۔ کم ہونا۔
 وَتُكْسُ الشَّیْ: گھٹنا۔ وَتُكْسُ السَّاجِرُ: اُوکس فی تَجَارِیْہ: نقصان اٹھانا۔
 وَتُكْسُ الشَّیْ: گھٹنا۔ فَلَانًا: بھڑکانا۔
 ذَانِنًا۔
 الْوُكْسُ: مہم۔ چاند کی وہ منزل جس میں گہن ہوتا ہے۔ چاند کا مٹھوس ستارہ کی منزل میں داخل ہونا۔ کہا جاتا ہے "هَذِهِ لِبَسَلَةُ الْوُكْسِ" یعنی یہ چاند کے مٹھوس ستارہ میں

دا گل ہونے کی رات ہے۔ زخم کی پیپ۔ کہا جاتا ہے "بَرَأتُ الشَّجَعَةِ عَلَيَّ وَنَحْسٌ زَخْمٌ" اندر سے پیپ رہتے ہوئے اوپر سے اچھا ہو گیا "وَلَا وَنَحْسٌ وَلَا شَطَطٌ" بغیر کی زیادتی کے۔
 الْأَوْحَسُّ: زیادہ کم۔ رَجُلٌ أَوْحَسُّ: خیس کمینہ یا کم حصہ والا۔
 وَحِطٌّ يَحِطُّ وَحُطٌّ وَوَأَحْطُ عَلَيَّ الْأَمْرُ: بیٹھتی کرنا۔ وَحِطُّهُ: ہٹانا۔ دُفِعَ كَرْنَا۔ علیحدہ کرنا۔
 تَوَحَّطٌ عَلَيْهِ الْأَمْرُ: معاملہ کا پیچیدہ ہونا۔
 وَكَعْفٌ يَكْعُهُ وَكَعْفًا: ڈسنا۔ سِرْرَشٌ كَرْنَا: وَكَعُ أَنْفُهُ: ناک توڑنا۔ الشَّاةُ: دوختے وقت سھن پر ہاتھ مارنا۔
 وَكَبَعٌ يُوَكِّعُ وَكَعْمًا: چھنگلیا کی طرف مڑے ہوئے قدم والا ہونا۔ صَفَتْ أَوْكَعٌ مَوْنَتٌ وَكَعَاءٌ۔
 وَكَبَعٌ يُوَكِّعُ وَكَاعَةٌ: لبتیم و کمینہ ہونا۔ الشُّي: سخت ہونا۔ صَفَتْ وَكَبَعٌ أَوْكَعُ الرَّجُلُ: بے خیر و برکت ہونا۔ دُشَوْرٌ كَامُ الْإِنَانَا..... الشُّي: مضبوط کرنا۔ الْقَدْمُ: مونا اور سخت ہونا۔ الْأَمْرُ: مضبوط و سخت ہونا۔
 الشَّفَاءُ: مضبوط کرنا۔
 اتَّكَعُ الشُّي: سخت ہونا۔
 اسْتَوَكَّعُ الرَّجُلُ: سخت معدرہ والا ہونا۔
 مِعْدَقَةٌ: سخت ہونا۔ الْفِرَاخُ: چوڑوہ کا مونا ہونا۔
 الْوَكْبِيُّعُ: سخت مضبوط۔ أَمْرٌ وَكْبِيُّعٌ: مستحکم معاملہ۔ الْوَقْبِيُّعُ: بکری کہ جس کے پیچھے گدگی بکریاں چلیں۔ اور کہا جاتا ہے وَكْبِيُّعٌ لِكَبْجٍ وَكُوعٌ لِكُوعٍ: یعنی کمینہ آدی۔
 الْأَوْكَعُ: کمینہ۔ بے وقوف۔
 الْمَيْكِيُّعُ: مضبوط۔ مَحْمَمٌ۔ نلے کا بڑا اور۔
 الْمَيْكِيُّعَةُ: بل کا پھل۔
 وَكَفٌّ يَكْفُ وَكُفًّا وَوَكَيْفًا وَكُوفًا وَكُفَّانًا وَتَوَكَّافًا الذَّمُّعُ وَنُحُوَةٌ: پتیکنا۔

الْبَيْثُ: چھت پتیکنا۔ وَكُفًّا وَوَكَيْفًا الْغَيْنُ الذَّمُّعُ: آگھ کا آسو پتیکنا۔
 وَكَيْفٌ يُوَكِّفُ وَكُفًّا الرَّجُلُ: گناہ کرنا۔ ظلم کرنا۔
 أَوْكُفٌ إِيكَافًا الذَّمُّعُ أَوْ الْبَيْثُ: پتیکنا۔
 هُ: گناہ کرنا۔ أَوْكُفَتِ الْمَرْأَةُ: ولادت کے قریب ہونا۔
 وَكُفٌّ وَكُفٌّ وَكُفٌّ وَكُفٌّ وَكُفٌّ وَكُفٌّ: گدھے پر پالان رکھنا۔ وَكُفُّ الْوَكُفِّ: پالان بنانا۔
 وَكُفٌّ مَوَاكُفَةٌ السَّرْجُلُ فِي الْحَرْبِ وَغَيْرِهَا: مقابلہ کرنا۔
 تَوَكَّفُ السُّطْحُ: چھت پتیکنا۔ الْبَيْثُ: چھت پتیکنا۔ الْأَنْزُ: ڈھونڈنا۔ طَلَبٌ كَرْنَا۔ پیچھا کرنا۔ لِفُلَانٍ: کسی کے درپے ہونا یہاں تک کہ ملاقات ہو جائے۔ السَّخْبِرُ: ظاہر ہونے کی امید رکھنا۔
 تَوَاكُفٌ: انحراف کرنا۔ منہ پھرانا۔ کنارہ ہونا۔
 اسْتَوَكَّفَ اسْتِيكَافًا الْكَاءُ: پتیکنا جاری کرنا۔
 الْوَكُفُّ: چیزے کا پھوٹنا۔
 الْوَكُفُّ: عیب۔ عیب۔ کہا جاتا ہے "هَذَا الْأَمْرُ وَكُفٌّ عَلَيْكَ" یہ کام تمہارے لئے عیب ہے۔ فساد۔ کمزوری۔ پینت۔ بوجھ۔ سختی۔ دامن کوہ ج اوکاف کہا جاتا ہے "إِنِّي لَا خَشْيَةَ عَلَيْكَ وَكُفٌّ فُلَانٌ" مجھے تمہارے اوپر فلاں کے ظلم کا خوف ہے "وَفُلَانٌ عَلَيَّ وَكُفٌّ مِنْ خَاجِيْبِهِ" جبکہ نہ جانتا ہو کہ کون سی حاجت ہے۔ "وَلَيْسَ عَلَيْكَ فِي هَذَا الْأَمْرِ وَكُفٌّ" تمہارے لئے اس معاملہ میں کوئی عیب نہیں۔
 الْوَكُفُّ وَالْإِكَاكُفُّ: عرق گیرج و کُفُّ الْوَاكُفُّ: ف۔ موسلا دھار بارش۔
 سَخَابٌ وَكُؤُفٌ: تھوڑا تھوڑا برسنے والا بادل۔
 وَكَلٌّ يَكْلُ وَكَلًّا وَوَكُلًّا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ: سپرد کرنا۔ کسی پر بھروسہ کر کے کام چھوڑ دینا۔

دینا۔ کہا جاتا ہے "يَكْلِبِي السُّي كَلًّا" مجھے چھوڑ دو کہ میں اس کام کو کروں۔
 أَوْكَلٌ إِيكَالًا: سپرد کرنا۔ بِاللَّهِ: اعتماد و بھروسہ کرنا۔ مطبوع و فرمانبردار ہونا۔ أَوْكَلُ الْعَمَلُ عَلَيَّ فُلَانٌ: سارا کام کسی کے لئے چھوڑ دینا۔
 وَكَلٌّ تَوَكُّلًا فُلَانًا: وکیل بنانا۔ اسم الْوَكَالَةِ وَالْوَكَالَةُ: الْوَكَلُ وَكَلًّا وَمَوَاكِلَةُ الْقَوْمِ: بعض کا بعض پر بھروسہ کرنا۔ (.....) وَكَلًّا الدَّابَّةُ: چوپایہ کا بڑا چلنا۔ ست چلنا۔
 تَوَكَّلُ: وکیل بننا۔ لَهُ بِالْبَشِيحِ: کامیابی کا ضامن ہونا۔ (وَأَتَّكَلُ) عَلَيَّ الْمَلِيَّةُ: بھروسہ کرنا۔ مطبوع و فرمانبردار ہونا۔ اتَّكَلُ فِي أَمْرِهِ عَلَيَّ فُلَانٌ: اعتماد و بھروسہ کرنا۔ تَوَكَّلُ فِي الْأَمْرِ: عاجزی ظاہر کرنا اور غیر پر اعتماد کرنا۔
 تَوَاكَلُ الْقَوْمِ: بعض کا بعض پر بھروسہ کرنا۔ تَوَاكَلُوهُ: چھوڑ دینا اور مدد نہ دینا۔ تَوَاكَلُوا الْكَلَامَ: ہر ایک کا اپنے ساتھی پر بھروسہ کرنا۔ اور کہا جاتا ہے "اسْتَعْنَتْ الْقَوْمُ فَتَوَاكَلُوا" میں نے قوم سے مدد طلب کی ہر ایک نے دوسرے کے سپرد کیا۔
 الْوَكَلُ وَالْوَكَلَةُ وَالْوَكَلَةُ وَالْوَكَلُ: عاجز آدمی جو اپنے امور کو دوسرے کے سپرد کر دے اور اس پر بھروسہ کرے۔
 الْوَكَلُ: غمی۔ بزدل۔ عاجز۔
 الْوَكَالُ وَالْوَكَالُ: کمزوری۔ غمادت۔
 الْوَكَالَةُ وَالْوَكَالَةُ: توکیل کے اسم ہیں۔ بمعنی سپردگی و بھروسہ و مَوَاكِلَاتُ الْوَكَلَانِ: سپردگی و بھروسہ۔
 الْوَاكِلُ: فاقہ۔ مِنَ الْخَيْلِ: وہ گھوڑا جس کے چلنے کے لئے مارنے کی ضرورت ہو۔
 الْوَكِيلُ: وہ شخص جس پر بھروسہ کیا جائے یا وہ شخص جس کے سپرد عاجز آدمی اپنا کام کر دے۔ دلیر۔ ج و کَلَّا اور جب یہ اسماء حسنہ میں سے ہو تو اس وقت روزی دینے والا

کفایت کرنے والے کے معنی ہوتے ہیں۔
السُّوْلُكُ: منع۔ کہا جاتا ہے "هَذَا الْأَمْرُ
مُسْوَلٌ إِلَى رَأْيِكَ" یعنی یہ کام تمہارے
پر ہے۔

وَكَمْ يَكْمُ وَكَمَا فَلَانَا عَنْ حَاجِبِهِ: بہت
تختی سے باز رکھنا..... الْأَمْرُ فَلَانَا: غمگین
کرنا۔ وَكَمَّتِ الْأَرْضُ: روندی ہوئی اور
چری ہوئی گھاس والی ہونا۔

وَكَمْ يَكْمُ بِكُمُ كِمَّةُ الرَّجُلِ مِنَ الشَّيْءِ: اداس
اور غمگین ہونا۔

السُّوْكَةُ: اسم مرثۃ۔ پیشہ جس میں درندے
زیادہ ہوں۔
السُّوْكُومُ: بہت غمگین۔

وَتَحَنُّنٌ يَكُنُّ وَتَحْنًا وَتُحُونًا الطَّائِرُ بَيْضُهُ أَوْ
غَلِي بَيْضُهُ: برندہ کا اٹھ سے سینا۔ صفت نمبر
وَإَكْنٌ مَجْزُومٌ صِفَتُ مَوْنَتْ وَإَكْنَةٌ: ج
وَتُحُونٌ وَوَاكِنَاتٌ..... الطَّائِرُ: گھونسلے میں
داخل ہونا..... وَتَحْنًا الرَّجُلُ: تیز چلنا۔
بیتھنا۔

تَوَكَّنَ الرَّجُلُ: مجلس میں اچھی طرح تکیہ
لگانا۔ کسی جگہ پر تہہ ر پکڑنا۔

السُّوَاكِنُ: بیٹھنے والا۔ مَوْنَتْ وَإَكْنَةٌ..... مِنْ
السُّطَيْرِ: درخت یا لکڑی یا دیوار میں وہ جگہ
جہاں پرندہ بیٹھے۔

الْوَكْنُ جَ أَوْكُنٌ وَوُكْنٌ وَوُكُونٌ وَالْوَكْنَةُ
وَالْوَكْنَةُ وَالْوَكْنَةُ وَالْوَكْنَةُ جَ وَكِنَاتٌ
وَوُكِنَاتٌ وَوُكِنَاتٌ وَالْوَكْنُ وَالْوَكْنُ
وَالْوَكْنَةُ: گھونسلہ۔ المَوْكِنُ: وہ جگہ جہاں
اٹھے ہوں۔

وَتَحْوُكُ الْحَمَامُ: کوکو کرنا..... فَلَانٌ مِنْ
السُّوَابِ: لڑائی سے بھاگنا
(..... وَتَوَكُّوْكُ الرَّجُلُ: لڑھکتے ہوئے
چلنا۔

الْوَكُوكُ: بزدل۔ چلنے میں لڑھکنے والا۔
وَكَسَى يَكْسِي وَكَيْسًا الْقَرْبَةَ: مشک کو بندھن
سے باندھنا۔

وَكَسَى سَوَاكِمَةً وَوَكْسًا: دعا کے وقت

دونوں ہاتھوں کو اٹھانا۔

أَوْكَى إِيكَاءَ الْقَرْبَةِ وَعَلَى مَا فِي الْقَرْبَةِ:
مشک کو بندھن سے باندھنا..... الرَّجُلُ: بخل
کرنا۔ کہا جاتا ہے "سَأَلْنَا فَاوْكَى عَلَيْنَا"

ہم نے اس سے مانگا اور اس نے بخل کیا۔
تیز دوڑنا..... وَوَشَحَى (الْفَرَسُ الْمَيْدَانُ
جَوْرِيًا: گھوڑے کا میدان میں چاروں طرف
دوڑنا۔

إِسْوَكَى الْوِعَاءَ: برتن کا بھر جانا.....
الْبَطْنُ: قبض ہونا۔

السُّوَكَاءُ: مشک وغیرہ کا بندھن۔ برتن وغیرہ
جس کے سرے کو باندھ دیا گیا ہو۔ ج
اوکیہ۔

السُّوَكِي: منع۔ بندھے ہوئے سرے کی
مشک۔

وَلَبَّ يَلْبُ وَلُوبًا: داخل ہونا اور جلدی کرنا
..... إِلَيْكَ الشَّيْءُ: پہنچنا۔

الْوَالِبُ: کسی چیز میں داخل ہونے والا۔
الْوَالِيَّةُ: کھیت کی روئیدگی..... مِنْ الْقَوْمِ أَوْ
الْمَوَاشِي: اولاد نسل۔

وَلَّتْ يَلْتُ وَلْنَا وَأَوْلَتْ فَلَانًا حَقَّةً: گھٹانا۔
کم کرنا۔

وَلَّتْ يَلْتُ وَلْنَا فَلَانًا بِالْعَصَاءِ: لاشی سے
مارنا..... لَهُ عَهْدًا: گزرو وعدہ کرنا.....

فَلَانٌ: غلام سے کہنا کہ تو میرے مرنے کے
بعد آ زاد ہے وَلَقَسْنَا السَّمَاءَ: تھوڑی بارش
سے تر کر دینا۔

السُّوَلْتُ: بھس۔ تھوڑی بارش۔ کمزور وعدہ۔
برتن میں بیڈ کا بقیہ۔ آشوب چشم کا اثر۔

وَلَجَّ يَلِجُ وَوَلَجًا وَوَلَجَةُ الْبَيْتِ وَوَلَجَ
الشَّيْءُ فِي غَيْرِهِ: گھر میں داخل ہونا۔

وَلَجَ الرَّجُلُ: پیٹ کی بیماری والا ہونا۔
وَلَجَ السَّالُ: لوگوں کے سوال سے بچنے کے
لئے اپنی زندگی میں اولاد میں سے کسی کو مال

دے دینا۔
أَوْلَجَهُ إِبْلَاجًا وَأَتْلَجَهُ إِبْلَاجًا: داخل کرنا۔

تَوَلَّجَ تَوَلَّجًا وَأَتْلَجَهُ إِبْلَاجًا إِلَيْهِ وَفِيهِ:
توڑنا۔

داخل ہونا۔

الْوَلَجُ: ریگستانی راستہ۔

السُّوَلَجُ: اطراف۔ کوچے۔ گھمیاں۔ شہد
ٹکائے کے کچھے۔ اور یہ ولج کی جمع ہے۔

السُّوَلَجَةُ: داخل ہونے کی جگہ۔ وادی کا
موڑ۔ غار جس میں راستہ چلنے والے بارش
وغیرہ سے پناہ لیں جَ أَوْلَاجٌ وَوَلَجٌ
وَوَلَجَاتٌ.

الْوَلَجَةُ وَالْوَلُوجُ: بہت داخل ہونے والا۔
کہا جاتا ہے "وَلَسُوْجٌ خَسْرُوْجٌ" بہت داخل
ہونے والا اور خارج ہونے والا۔

الْوَالِجَةُ: پیٹ کا درد۔ دانت کا درد۔ سانپ
اور درندے۔

الْوَالِجَةُ: آدمی کا باطن۔ مجیدی رازدار معتد
علیہ جو غیر قوم سے ہو۔ قوم میں داخل ہونے
والا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ وَوَالِجَتُهُمْ" یعنی وہ
ان کی قوم میں داخل ہے حالانکہ ان میں
سے نہیں۔

الْوَلَّاجُ: بہت داخل ہونے والا۔
السُّوَلَّاجُ: دروازہ۔ وادی۔ پست زمین ج
وَلِجٌ وَوَلُوجٌ.

السُّوَلَجُ: عقاب کا چوزہ۔ اصل اس کی الوَلَجُ
ہے۔

السُّوَلَجُ: وحشی جانوروں کا بھٹ۔ اس کی
اصل الوَلُوجُ ہے۔

السُّوَلَجُ: داخل ہونے کی جگہ جَ مَوَالِجُ.
وَلَسَجٌ يَلِجُ وَوَلَسًا الدَّائِمَةُ: چوپایہ پر طاقت
سے زیادہ لانا۔

الْوَالِجَةُ: بوری۔ جَ أَوْلَاجٌ وَوَالِجٌ.
وَلَسَجٌ يَلِجُ وَوَلَسًا: بچھڑ مارنا۔

أَوْلَجَ الْعُشْبُ: گھاس کمی اور بڑی ہونا۔
إِنْتَلَجَ الْأَمْرُ: غلط ملط ہونا۔

أَسْتَوْلَجْتُ اسْتِئْلَاجًا الْأَرْضَ: زمین کا تر
ہونا۔

الْوَالِجُ: کتان کا کپڑا۔
الْوَالِجَةُ: گارہا ہوا دودھ۔ بچھڑ۔

أَرْضٌ وَلِجَةٌ وَوَالِجَةٌ وَمَوْتَلِجَةٌ: چھیدہ

گھاس والی زمین۔

الْوَلْعُ مِنَ الْعُشْبِ: لمبی پچیدہ گھاس۔

وَلَدَتْ تَلِدًا لِدَةً وَّوَلَادًا وَّوِلَادَةً وَّالْوَادَةَ

وَمَوْلِدًا الْأَنْثَى: جننا۔ صفت والد

وَوَالِدَةٍ..... الْأَرْضُ النَّبَاتُ: آگاتا۔

وَلَدَ الْوَلْدُ: پرورش کرنا..... الشَّيْءُ مِنْ

الشَّيْءِ: پیدا کرنا۔ نکالنا..... الْكَلَامُ أَوْ

الْحَدِيثُ: نیا پانا..... الْقَابِلَةُ الْمَرْأَةُ:

جنوانا۔ اور کہا جاتا ہے "وَلَدَ الرَّجُلُ

عَيْنَهُ" آدمی نے اپنی بکریوں کے بچے

نکلوائے۔ جیسے بولا جاتا ہے نَتَجَ الْبِلْدُ.

أَوْلَدَتْ إِبْنَادًا الْمَرْأَةُ: جننے کا وقت قریب

ہونا..... الشَّاءُ: جننا۔ صفت مَوْلِدٍ مَوْلِدًا

وَمَوْلِدًا.

تَوَلَّدَ الشَّيْءُ مِنْ غَيْرِهِ: پیدا ہونا۔

تَوَالَّدَ وَأَتَلَّدَ الْقَوْمُ: بہت ہونا۔

اسْتَوْلَدَ الْمَرْأَةُ: حاملہ کرنا..... فَلَانٌ:

..... بچہ طلب کرنا۔

الْوَلْدُ وَالْوَالِدُ وَالْوَالِدَةُ وَالْوَالِدَةُ: بچہ۔ مذکر

مؤنث متشبیہ جمع سب پر اطلاق ہوتا ہے اور

یہ لفظ مذکر ہے اور کبھی اولاد و نسل و البذہ

وولد کے اوزان پر جمع لاتے ہیں۔

الْوَالِدُ: باپ و والدون۔ الوالدان: ماں

باپ۔ شاة و البذہ: حاملہ بکری و ولد.

الوَالِدَةُ: ماں۔ و والذات.

البلذہ: مہمن۔ ہم عمر۔ ہم سر (اس کی اصل

ولد ہے) تم کہتے ہو "فَلَانٌ لِدَيْتِي" فلاں

میرا ہم عمر ہے متشبیہ لذلان و لذات و لذون

اور اس کی تصغیر و لذات و ولذون۔ البذہ:

جننے کا وقت۔

الْوَالِدَةُ: بہت جننے والی۔

الْوَالِدَةُ مِنَ الشَّاءِ: جننے والی بکری۔ بہت

جننے والی و ولد.

الْوَالِدَةُ وَالْوَالِدَةُ: بچپنا۔ سخت ولی۔

الْوَالِدَةُ: پیدا شدہ۔ بچہ۔ غلام و ولدنة

وولدان: مؤنث و ولدنة و ولدان. أم

الْوَالِدَةُ: مرغی کی کنیت۔ کہا جاتا ہے "فَعَلَّ

ذَلِكَ فِى وَالِدَيْتِهِ" اس نے اپنے بچپنے

میں ایسا کیا۔

الْمَوْلِدُ: مہمن۔ پیدائش کی جگہ یا وقت۔ رج

مَوْلِدًا.

الْمِيْلَادُ: پیدائش کا وقت و عَيْدُ الْمِيْلَادِ

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن۔

کرمس ڈے۔

الْمَوْلِدُ: مہمن۔ نیا پیدا شدہ اور اسی سے ہے

"الْمَوْلِدُونَ مِنَ الشُّعْرَاءِ أَوْ الْإِدْبَاءِ" ان

کے نئے ہونے کی وجہ سے یہ نام رکھا گیا۔

رَجُلٌ

مَوْلِدٌ وَكَلَامٌ مَوْلِدٌ: غیر خالص عربی مرویا

کلام۔

الْمَوْلِدَةُ: دائی جنائی۔

الْمَوْلِدَةُ: نئی پیدا شدہ چیز۔ کہا جاتا ہے

"جَاءَ نَا بَيْتِنَا مَوْلِدَةٌ" وہ ہمارے پاس ایسا

بینہ لایا جو محقق نہیں۔

الْمَوْلِدُ: مہمن۔ چھوٹا بچہ و موالید.

وَلَدَ يَلِدٌ وَلَذَا الرَّجُلِ: تیز چلنا۔ تیز حرکت

کرنا۔

الْوَالِدُ: دروغ گو خود رائے۔

وَلَسْتُ تَلِسٌ وَتَلِسًا وَتَلِسَانًا. الْإِبِلُ:

اونٹ کا تیز دوڑنا۔ صفت و تَلِسٌ (.....)

وَتَلِسًا الرَّجُلُ: دھوکا دینا۔ خیانت کرنا۔

الْحَدِيثُ: کنایہ سے بات کرنا۔

وَالسُّهُوَالَةُ: فریب دینا۔ مدہانت کرنا

(.....) وَأَوَّلَسٌ بِالْحَدِيثِ: کنایہ سے بات

کرنا۔

تَوَالَسَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ: کسی کے خلاف دھوکا

اور خیانت میں ایک دوسرے کی مدد کرنا۔

الْوَالَسُ: بھیجنا۔

وَلَعٌ يَلَعٌ وَوَلَعًا بِحَقِّهِ: حق مار لینا..... وَوَلَعًا

وَلَعَانًا) دوڑنے میں ہلکا پھلکا ہونا۔ جھوٹ

بولنا۔ اور کہا جاتا ہے "مَسَاوَرِيٌّ مَسَاوَلَعَةٌ"

مجھے نہیں معلوم اس کو کس چیز نے روکا۔

وَلَعٌ يَوَلَعٌ وَيَلَعٌ وَوَلَعًا وَوَلَعًا وَأَوَلَعٌ إِيْلَاعًا

وَتَوَلَعٌ بِهِ: بہت محبت کرنا۔ شیفتہ ہونا۔ بہت

گرویدہ ہونا۔ وُلِعَ بِهِ: بھڑکایا جانا۔

وَوَلِعَ الشَّوْرُ: تیل کے چکترے رنگ کا لمبا

ہونا..... جَسَدَةٌ: سفید داغ والا بنانا..... هُ

بِفُلَانٍ: بھڑکاتا۔ کہا جاتا ہے "اتَّلَعَ فُلَانًا

وَالْبَعَةَ" یعنی اس کا حال مجھ سے مخفی ہے مجھے

نہیں معلوم کہ وہ مر گیا یا زندہ ہے۔

إِيْتَلَعَ فُلَانٌ قَلْبِي: دل نکال لینا۔

الْوَلِعُ: مہمن۔ جھوٹ۔

الْوَالِعُ: فاف۔ جنونا و لَوَلَعَةٌ مؤنث و البعة کہا

جاتا ہے "وَلِعَ وَالِعٌ" بڑا جھوٹ۔

الْوَلِعُ وَالْوَلَوِعُ وَاللَّاعَةُ: بہت محبت اور

تعلق والا۔

الْوَلَعَةُ: لائحنی باتوں کا گرویدہ۔

الْوَالِعُ: کھجور کا ٹھونڈا کھٹفتہ واحد و لَوَلَعَةٌ.

الْمَوْلِعُ: مہمن۔ برص کی بیماری والا۔ الْمَوْلِعُ

مِنَ الدَّوَابِّ: وہ جو پایہ جس کے بدن پر سیاہ

سفید کے علاوہ اور مختلف رنگ ہوں۔

الْمَوْلِعُ الْقَلْبُ وَالْمَوْلِعُ الْقَلْبُ: آشفتہ

دل۔

وَوَلَعٌ يَلَعٌ وَوَلَعٌ يَلَعٌ وَوَلَعٌ يَلَعٌ وَوَلَعٌ

وَوَلَعًا وَوَلَعًا وَوَلَعًا وَوَلَعًا الْكَلْبُ الْإِنَاءُ وَفِي

الْإِنَاءِ: کتے کا برتن میں منڈالنا۔ اطراف

زبان سے چینا۔

أَوَلَعٌ إِيْلَاعًا الْكَلْبُ: کتے کو پلانا۔

الْوَلَعَةُ: اسم مرءة۔ چھوٹی ڈوپٹی۔

الْمِيْلَعُ وَالْمِيْلَعَةُ: برتن جس میں کتا منڈال

دے یا جس میں پانی پلایا جائے۔ و مِيْلَعُ.

الْمُسْتَوْلِعُ مِنَ النَّاسِ: تنگ و عار کی پروانہ

کرنے والا۔

وَوَلَفٌ يَلِفٌ وَوَلَفًا وَوَلَفًا وَوَلَفًا

الْبُرُقِيُّ: بجلی کا لگا تار چمکانا..... وَوَلِفًا الْقَوْمُ:

اکٹھے آنا۔

وَالْفُ وَوَلَفًا وَوَلَفًا: محبت کرنا۔ اپنی کسی کی

طرف نسبت کرنا اور متصل ہونا۔

تَوَالَفَ مَوَالِفًا وَوَلَفًا (نادر) الشَّيْئَانُ:

ایک دوسرے سے آلف و محبت کرنا۔

الْوَالِفُ: ساتھی۔ دوست۔

الْوَلِيفِ وَالْوَلُوفِ: لگا تار چکنے والی بجلی۔
 الْوَلُوفِ وَالْوَلِيفِ: مصرح۔ ایک قسم کی دوڑ
 جس میں نائلیں یکبارگی زمین پر پڑتی ہیں۔
 وَلَقَّ بِلِقِّ وَلَقَّا فِي السَّيْرِ: جلدی چلنا.....
 بِالرُّمُوحِ: بگائیزہ مارنا.....
 بِالسَّيْفِ: تلوار سے مارنا.....
 الْحَدِيثِ: پھیلا نا۔ گھڑنا.....
 عَلَيْهِ: آنکھ پر مار کر چھوڑ دینا.....
 فِي كَذِبِهِ: او سنیہہ۔ لگا تار جھوٹ بولنا یا ہمیشہ چلنا۔
 أَوْلَقَ الْإِبِلَاقَا وَالْبَقَا: پاگل ہونا۔ صفت
 مَاوُلُقٍ وَمَاوُلُقٍ: سولوقی: اونٹنی کی ایک تیز دوڑ۔ کہا جاتا ہے
 "نَافَقَةٌ وَلَقِي" تیز رفتار اونٹنی۔
 الْوَلِيفَةُ: ایک قسم کا کھانا جو آنا، دودھ اور گھی
 سے تیار ہوتا ہے۔
 الْأَوْلُقُ: پاگل پن۔
 أَوْلِمَ الْإِبِلَامَا: ویر کرنا.....
 فَلَاقٌ: خلقت میں یا اخلاق و عقل میں کامل ہونا۔
 الْوَلْمُ وَالْوَلْمُ: بند۔ زمین یا کجاوہ کا ٹنگ۔
 الْوَلْمَةُ: تمامی۔ کسی چیز کا اجتماع۔
 الْوَلِيْمَةُ: شادی کی خوشی کا کھانا۔
 مَجَوْلَامٍ: تولن الرجل: مصائب کی وجہ سے چیخ پڑنا۔
 وَلَهُ يَلَّةٌ وَوَلَّةٌ يَلَّةٌ وَوَلَّةٌ وَلَهَا وَتَوَلَّهَ وَاتَّلَهَ:
 بہت زیادہ تمکین ہونا یہاں تک کہ عقل زائل
 ہونے کے قریب ہو جائے شدت غم کی وجہ
 سے متحیر ہونا۔ صفت مذکور الہ و آلہ وَلَهَا:
 وصفت مؤنث و الہة و ولہنی و لہ:
 الطَّبِيُّ إِلَى أَبِيهِ: بچے کا گھبرا کر ماں کے
 پاس جانا.....
 الْإِمَّ السَّى وَلِبْدَهَا: مشتاق ہونا۔
 مِنْهُ: خوف کرنا۔
 وَلَهُ الرَّجُلُ: شدت غم میں ڈالنا.....
 الْمَرْوَةُ: عورت اور اس کے بچے میں جدائی کر دینا
 (.....) وَأَوْلَسَهُ الْحُزْنَ أَوْ الْوَجْدَ فَلَانَا:
 سرگشت و حیران بنا دینا۔
 أَتَلَسَهُ الْبَيْتُ فَلَانَا: مدہوش کر دینا۔
 عقل زائل کر دینا۔
 اسْتَوْلَى اسْتِيْلَاهَا: بدحواس ہونا۔

مَاءٌ مُؤَلَّةٌ وَمُؤَلَّةٌ: بیابان کی طرف چھوڑا ہوا
 پانی۔
 الْمُؤَلَّةُ: بکڑی۔
 السَّيْلَةُ: حیرانی و پریشانی میں ڈالنے والا
 بیابان۔
 السَّيْلَةُ: تیز ہوا۔
 الْمَرْوَةُ: میلانہ: بچے کی
 موت کی وجہ سے بہت جزع فزع کرنے
 والی عورت۔
 مَجَوْلَاهُ:
 وَلَوْلَتْ وَلَوْلَةٌ: وُلُوْلَا الْمَرْوَةُ: واویلا
 کرنا۔
 مَجَوْلَا: مَجَوْلَا الْقَوْسُ: کمان سے
 آواز لگنا۔
 الْوَلْوَالُ: شدت غم۔
 زَالُو:
 وَلِيٌّ وَوَلِيٌّ يَلِيٌّ: وَلِيًّا فَلَانَا: قریب ہونا۔
 متصل ہونا (باب ضرب سے قلیل الاستعمال
 ہے) بغیر فصل کے پیچھے پیچھے چلنا۔
 کہا جاتا ہے "جَلَسْتُ مِمَّا يَلِيهِ"
 وَلِيٌّ يَلِيٌّ: وَلِيَّةٌ وَوَلِيَّةٌ: وَلِيَّةٌ الشَّيْءِ وَعَلَى
 الشَّيْءِ: والی ہونا۔
 متصرف ہونا.....
 الرَّجُلُ: وَعَلَيْهِ: مدد کرنا.....
 الْبَلَّةُ: قابض و متصرف ہونا.....
 وَوَلِيَّةٌ الرَّجُلِ: مَحَبَّتُ كَرَامَا:
 وَلِيٌّ السَّمَكَانُ: موسم بہار کی بارش سے
 سیراب ہونا۔
 وَلِيٌّ تَوَلَّى فَلَانَا الْأَمْرَ: والی مقرر کرنا۔
 وَوَلَاةٌ كَذَا: کسی کے پیچھے کرنا۔
 وَوَلَاةٌ ظَهْرُهُ: اپنے پیٹھ کے پیچھے کرنا۔
 وَلِيٌّ الشَّيْءِ وَعَنِ الشَّيْءِ: اعراض کرنا۔
 دور ہونا۔
 وَلِيٌّ هَارِبًا: پیٹھ دے کر بھاگنا۔
 وَلِيٌّ الرُّطْبُ: خشک ہونے لگنا۔
 عَنِ زَيْدٍ بِوَدِّهِ: دوستی کا بدل جانا۔
 أَوْلَى الْإِبِلَاءَ فَلَانَا الْأَمْرَ: والی مقرر کرنا۔

 مَغْرُوفًا: کسی پر احسان کرنا۔
 اور اسی سے ہے جو تعجب کے موقع پر بولا جاتا ہے "مَا
 أَوْلَاةٌ لِّلْمَغْرُوفِ" وہ کتنا فیاض ہے (اور یہ
 شاذ ہے اس لئے کہ ثلاثی مزید سے یہ صیغہ
 نہیں آتا) أَوْلَاةٌ عَلَى النَّيْتِمِ: وصیت کرنا۔
 وَالنَّيْتِمُ: ولاء و مؤالاة الرجل: دوستی کرنا۔
 مدد کرنا.....
 الشَّيْءِ: لگا تار کرنا.....
 الْغَنَمِ: جدا جدا کرنا.....
 بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ: بیاپے کرنا۔

تَوَلَّى تَوَلَّى الْأَمْرَ: ذمہ داری لینا۔
 کسی کے کام کے لئے مستعد ہونا.....
 فَلَانَا: ولی مقرر کرنا.....
 عَنَهُ: اعراض کرنا اور چھوڑ دینا
 تَوَلَّى هَارِبًا: پیٹھ دے کر بھاگنا.....
 الشَّيْءِ: کسی چیز کے ساتھ لازم ہونا.....
 الرُّطْبُ: خشک ہونے لگنا.....
 عَالِيٌّ بِوَدِّهِ: دوستی کا بدل جانا۔
 تَوَالَى تَوَالَى: بیاپے ہونا۔
 اور کہا جاتا ہے "تَوَالَى الْغَنَمِ عَنِ الْغَنَمِ"
 بھینچیں بکریوں سے جدا ہو گئیں۔
 اسْتَوْلَى اسْتِيْلَاهُ: غائب ہونا۔
 قدرت یافتہ ہونا.....
 عَالِيٌّ الْغَنَمِ: انتہا کو پہنچنا.....
 عَالِيٌّ الشَّيْءِ: قابض ہونا۔
 الْوَلِيُّ: محس۔
 قَرَبٌ: نزدیکی۔ بارش بہار کے بعد دوسری بارش (پہلی بارش کو وی کہتے
 ہیں) اور کہا جاتا ہے "ذَارَةٌ وَلِيٌّ ذَارِي"
 اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہے۔
 الْوَلَاءُ: محبت۔ دوستی۔
 نزدیکی و قرابت۔ مدد۔
 ملکیت۔ الْوَلَاءُ: میراث جو آزاد کردہ غلام سے
 یا عقد مولاہ کی وجہ سے حاصل ہو اور کہا جاتا ہے
 "جِئْنَا وَوَلَاءٌ أَوْ عَالِيٌّ وَوَلَاءٌ"
 وہ لوگ پیہ پیہ آئے۔
 الْوَلِيُّ: جَوْلَانَا: بہار کی بارش کے بعد دوسری
 بارش جو اَوَّلِيَاءَ: محبت کرنے والا۔ دوست۔
 مددگار۔ بڑوسی۔
 حلیف۔ تابع۔ داماد۔
 ہر وہ شخص جو کسی کے کام کا تنظیم ہو۔ کہا جاتا ہے
 "اللَّهُ وَلِيُّكَ" اللہ تمہارا حافظ و مددگار ہے۔
 "وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيُّ اللَّهِ" یعنی مومن اللہ تعالیٰ کا
 مطیع و فرمانبردار ہوتا ہے۔
 وَلِيٌّ الْعَهْدِ: وارث تخت و تاج۔
 وَلِيٌّ الْيَتِيمِ: یتیم کا والی۔ الْوَلَايَةُ: محس۔
 وہ بلا وجہن پر ایک حاکم قابض ہو۔
 مَجَوْلَايَاتُ: الْوَلَايَةُ: حکومت۔
 امارت۔ سلطنت۔ وہ ممالک جن پر ایک حاکم قابض ہو۔
 الْوَلَايَةُ: والوایۃ و الوالوایۃ: رشتہ داری۔
 اور کہا جاتا ہے "هَمَّ عَالِيٌّ وَوَلَايَةٌ أَوْ وَوَلَايَةٌ"

وَأَمَقَهُ وَمَاقًا وَمُؤَامَقَةً: ایک دوسرے سے محبت کرنا۔

تَوَاقَقَ الرَّجُلَانِ: باہم محبت کرنا۔

تَوَمَّقَهُ: دوستی کرنا۔

الْوَمِيقُ وَالْمُؤَمِّقُ: محبوب۔

الْوَمِيقَةُ: فراخی و کشادگی۔

وَمِسَةٌ يَوْمُهُ وَمِنْهَا النَّهَارُ: دن کا سخت گرم ہونا۔

تَوَمَّنَ الرَّجُلُ: بہت اولاد والا ہونا۔

وَمَسَى تَوَمِيَةً بِالشَّيْءِ: لے جانا۔

إِسْتَوَمَى عَلَيْهِ: غالب ہونا (مانند استولیٰ علیہ)

المُؤَامَاةُ وَالْمُؤَامَاةُ: بیابان و المُواصِي.

الْوُنُ: کمزوری۔ چنگ کہ جس کو اظلیوں سے بچاتے ہیں (دخیل)

وَنِيَّةٌ: جھڑکن۔ سرزنش کرنا۔

الْوُنُجُ: ایک قسم کا ربط۔ (دخیل)

وَالنَّحَةُ مَوَانِحَةٌ: موافقت کرنا۔

وَتَمَّ بَيْنَهُمَا وَتَمَّ وَبَيْنَهُمَا الدُّبَابُ: کبھی کا بیٹ کرنا۔

الْوُنْمَةُ وَالْوُنْمُ: کبھی کی بیٹ۔

وَأَنَّى يَنبِي وَوَنَى يُوْنِي وَنِيًا وَوَنِيًا وَوَنَاءٌ وَوَنِيَةٌ وَوَنِيَةٌ وَوَنَسِيٌّ: سست ہونا۔ کمزور ہونا۔ تھلنا۔ صفت وَان مَوْنٌ وَأَنِيَةٌ:

چھوڑنا..... عَن كَذَا: مہمل چھوڑ دینا.....

الْحُكْمُ: سمیٹنا..... السَّحَابَةُ: برسانا۔ کہا جاتا ہے "فَلَا تَلْبَسِي نِيْعًا يَفْعَلُ كَذَا" فلاں ہمیشہ

ایسا کرتا رہا۔

وَأَنَّى تَوْنِيَةٌ: عمل میں سستی کرنا۔

أَوْنِي إِبْنَاءُ الرَّجُلِ: تھکانا۔ کمزور کرنا۔

تَوَانِي تَوَانِيًا فِي حَاجَتِهِ: سستی کرنا۔ کوتاہی کرنا۔ اجتمام نہ کرنا۔

الْوَنَاءُ: سستی۔

إِسْرَاءُ وَنَاءٌ وَأَنَاءٌ وَأَنِيَةٌ: سست حرکات والی عورت۔

الْوَنُوءَةُ: عقل کی کمزوری۔

الْوَنَاءُ وَالْوَنِيَّةُ: مرد وارید۔ موتی۔

الْمُسْوَإِي: قا۔ مَسْوَإِلَةٌ: شیعوں کی جماعت۔

وَمَاسَا وَمَا وَمَمَّا تَوَمَمَةٌ أَوْ مَأْ إِيمَاءٌ بِحَاجِبِهِ أَوْ يَدِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ: اشارہ کرنا۔

وَأَمَّا مَوَامِئَةُ الرَّجُلِ: وَاءٌ م: میں ایک لخت ہے۔

المُؤَمَّا إِلَيْهِ: جس کی طرف اشارہ کیا جائے مذکورہ بالا کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔

الْوَمِيقَةُ: دھوپ کا اثر۔

وَصَدَّتْ تَوَمَّدَ وَمَعَدَا اللَّيْلَةُ: گھٹن کے ساتھ تیز گرمی والی ہونا۔ صفت وَمِئِدٌ وَمِئِدَةٌ وَمِئِدٌ عَلَيْهِ: غضبناک ہونا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ وَمِئِدٌ عَلَيْهِ" وہ اس پر غضبناک ہے۔

الْوَمِئِدَةُ: رات کی تیز گرمی۔

الْوَمِئِدَةُ: خالص سپیدی۔

وَمَزَّ يَمِزُّ وَمَزَا بِأَنْفِهِ: غصے سے تھننے پھلانا۔

تَوَمَّزَ: اٹھنے کا ارادہ کرنا۔

وَمَسَّ يَمِسُ وَمَسَا الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: رگڑنا یہاں تک کہ چھلکا جدا ہو جائے۔

أَوْمَسَّتِ الْمَرْأَةُ: بدکار ہونا۔ أَوْمَسَّ الْعَنْبُ: پکنے کے لئے نرم ہونا۔

المُؤَمِّسُ وَالْمُؤَمِّسَةُ: بدکار و فاجرہ عورت و مؤمِيسَاتٌ وَمُؤَمِّيسٌ وَمُؤَمِّيسٌ:

مؤمیس و مویامیس و مویامیس۔

الْوَمِئَةُ: بدن انسانی پر سفید تل۔

وَمَضَّ يَمْضُ وَمَضًا وَمِضًا وَمِضَانًا البُرْقُ: آہستہ پھلنا۔ صفت وَمِضٌ:

أَوْمَضَّ إِيمَاضًا البُرْقُ: بجلی کا آہستہ چمکانا..... الرَّجُلُ: رحر سے اشارہ کرنا۔ بجلی یا

آگ کی چمک دیکھنا۔ مسکرانا۔ أَوْمَضَّتِ الْمَرْأَةُ بَعِيْنَهَا: عورت کا زردیدہ نگاہوں سے دیکھنا۔

الْوَمِئَةُ: تھکن سے زمین پر گرنا۔

الْوَمِئَةُ: بارش کی بوجھاڑ۔

الْوَمِئَةُ: لمبا بال۔

وَمِئَةٌ يَمِئَةٌ مِئَةٌ وَمِئَةٌ: محبت کرنا۔

واحدة" وہ لوگ میری مدد میں اکٹھے ہیں یا وہ سب میرے خلاف اکٹھے ہو گئے۔

الْوَلِيَّةُ: ولی کا مؤنث۔ نزدیکی۔ عرق گیرج و لیاات و ولایا۔ خَارِ وَوَلِيَّةٌ: نزدیک کا گھر۔

الْوَالِي: قا۔ والی البلد: حاکم شہر۔ جَوْلَاةُ الْأَوْلَى: زیادہ حقدار۔ زیادہ لائق۔ کہا جاتا ہے "هُوَ أَوْلَى بِكَذَا" وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔

مَثَلِيَّةُ الْوَالِيَانِ الْوَالِيَانِ وَالْوَالِيَانِ: مؤنث الْوَالِيَانِ الْوَالِيَانِ الْوَالِيَانِ الْوَالِيَانِ وَالْوَالِيَانِ "وَأَوْلَى لَكَ" دھمکی اور وعید کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور مقصد یہ ہے کہ شر تمہارے قریب ہے بچو۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس کے معنی السُّوَيْلُ لَكَ يَنَا

أَوْلَاكَ اللَّهُ مَا تَكْرَهُهُ" کے ہیں۔ اس صورت میں لام زائدہ ہے اور ایسا ہی "أَوْلَى لِي وَأَوْلَى لَكَ" کہا جاتا ہے۔

الْمَوْلَى: مالک و سردار۔ غلام۔ آزاد کرنے والا۔ آزاد شدہ۔ انعام دینے والا۔ جس کو انعام دیا جائے۔ محبت کرنے والا۔ ساتھی۔

حلیف۔ پڑوسی۔ مہمان۔ شریک۔ بیٹا۔ چچا کا بیٹا۔ بھانجا۔ بیچا۔ داماد۔ رشتہ دار۔

ولی۔ تابع و السموالی اور کہا جاتا ہے "هُوَ يَتَمَوْلَى عَلَيْنَا" وہ ہمارا سردار بننا چاہتا ہے۔

المواليا: ایک قسم کے اشعار جن کو گایا کرتے تھے اور جن کے آخر میں یا موالیا کہا کرتے تھے اور اپنے سرداروں کی طرف اشارہ کرتے تھے (اور عوام مسوال: کہتے ہیں ج

مواويل)

السُّوَلِيُّ: بچہ جس پر ولی مقرر کیا گیا ہو۔ مؤنث مَوْلِيَةٌ:

السُّوَلِيَّةُ: مولیٰ کی طرف منسوب عند المسلمین: زیادہ۔

السُّوَلِيَّةُ: ایک قسم کی لمبی ٹوپی جس کو فرقہ سُولِيَّةُ کے لوگ پہناتے تھے اور کہا جاتا ہے "فِيهِ سُولِيَّةٌ" اس میں سرداروں کی

مشابہت ہے۔

الوانی: قال: كزور بدن والا۔ نَسِيمٌ وَإِنْ:
نرم نرم چلنے والی ہوا۔

الوانی: موتی۔

الْمِينَا وَالْمِينَاءُ: بندرگاہ۔ اور "مِينَاءُ
السَّاعَةِ" گھڑی کے ڈائل کو کہتے ہیں۔

وَهَبَ يَهَبُ وَهْبًا وَوَهْبًا وَهَبَةَ الْمَالِ فَلَانًا
وَلِفُلَانٍ: بہہ کرنا (بعضوں نے کہا ہے کہ

وَهَبَ دُوْمَعُولُ كِي طَرَفٍ مَعْدِي بِنَفْسِهِ نَيْسَ
ہوتا مگر اس وقت کہ جعل کے معنی کو مستحسن

ہو) اور کہا جاتا ہے "هَبْنِي فَعَلْتُ كَذَا"
فرض کرو کہ میں نے ایسا کیا (هَبَّ آتَنِي

فَعَلْتُ كَذَا نہیں کہا جاتا) اور اس معنی میں
صرف امر ہی کا صیغہ مستعمل ہے (.....)

وَوَهَبَ يَهَبُ (الرَّجُلُ) دَاوُدَ بَشٍ مِثْلَ
غالب ہونا۔

وَاهِبًا مَوَاهِبَةً: بہہ کرنے میں مقابلہ کرنا۔
أَوْهَبَ إِهْبَابًا الْأَمْرَ لِفُلَانٍ: تیار کرنا۔

..... الشَّيْءُ لِفُلَانٍ: لینے کے لئے ممکن ہونا۔
الشَّيْءُ لَهُ: زیادہ و بکثرت ہونا یہاں تک کہ

اسی میں سے بہہ کرے۔ اور کہا جاتا ہے
"أَوْهَيْتُ لِكَذَا" یعنی میں اس پر قادر ہوا۔

تَوَهَّبَ الْقَوْمُ: بعض کا بعض کو بہہ کرنا۔
إِتَهَبَ إِتِهَابًا الْهَيْبَةَ: بہہ قبول کرنا۔

إِسْتَوْهَبَ اسْتِهَابًا الْهَيْبَةَ: بہہ طلب کرنا
..... فَلَانًا وَمِنْ فَلَانٍ الْهَيْبَةَ: بہہ کرنے کی

درخواست کرنا۔
الْهَيْبَةُ: محسوس۔ کسی کو کسی چیز کا بغیر عوض کے

مالک بنانا۔ صہ کی ہوئی چیز جنہاں
الْوَهَابُ وَالْوَهَابِيَّةُ وَالْوَهْوَابُ: بہت بہہ

کرنے والا۔
الْمَوْهَبُ وَالْمَوْهَبِيَّةُ: وہب کا اسم ہے۔

السَّوْهَبَةُ وَالسَّوْهَبِيَّةُ: عطیہ۔ بہہ کی ہوئی
چیز۔ چھونا سانا تالاب جیسے "هُوَ أَشْهِي مِنْ

سَاءِ مَوْهَبَةٍ عَلَى خَمْرٍ" وہ تالاب کے پانی
سے شراب کا زیادہ راغب ہے ج

"فَوَاهِبُ الْمَوْهَبَةِ" پہاڑ کا گڑھا جس میں
پانی جمع ہو جائے۔

وَهَتْ يَهْتُ وَهْتًا الشَّيْءُ: دہانا۔ سخت
روندنا۔

أَوْهَتْ اللَّحْمُ: گوشت کا بدبودار ہونا۔
الْوَهْتَةُ: پست زمین۔ ج وَهَتْ.

لَحْمٌ مُوَهَّتٌ: بدبودار گوشت۔
وَهَتْ يَهْتُ وَهْتًا وَهْتَةً فِي الشَّيْءِ: مشغول

ہونا..... الشَّيْءُ: سخت روندنا۔
تَوَهَّتْ تَوْهْتًا فِي الْأَمْرِ: خوب غور کرنا۔

وَهَجَّتْ تَهْجٌ وَهْجًا وَوَهْجًا وَوَهْجَانًا
النَّارُ أَوْ الشَّمْسُ: آگ بھڑکنا۔ آفتاب

روشن ہونا۔
أَوْهَجَ النَّارُ: آگ بھڑکانا۔

تَوَهَّجَ: بھڑکنا..... الْحَرُّ: گرمی سخت ہونا۔
يَوْمُنَا: سخت گرمی والا ہونا..... الْجَوْهَرُ: پتھرا

..... وَالْحَبَّةُ الطَّيِّبُ: بھڑکنا۔ خوشبو پھیلانا۔
السَّوْهَجُ: آگ کی بھڑک یا آفتاب کی

چمک۔ آفتاب کی یا آگ کی گرمی جو دُور
سے محسوس ہو، وَهَجَ الطَّيِّبُ خَوْشِبُو كِي بَهْرُكْ

يَوْمٌ وَهْجَانٌ وَوَهْجٌ: سخت گرم دن۔
السَّوْهَاجُ: سخت بھڑکنے والا۔ نَجْمٌ وَهَاجٌ:

روشن ستارہ۔ اور ایسا ہی سَوَاجٌ وَهَاجٌ.
وَهْدَلَهُ الْفِرَاشُ: بچھونا بچھانا۔

تَوَهَّدَ الْفِرَاشُ: بچھنا۔
الْوَهْدُ: پست زمین جِ أَوْهْدٌ وَوَهْدَانٌ اور کہا

جاتا ہے "مَكَانٌ وَهْدٌ" پست جگہ۔
السَّوَهْدَةُ: پست زمین۔ گڑھا۔ جِ وَهْدَادٌ

وَوَهْدٌ.
وَهْرَةٌ يَهْرَةٌ وَهْرًا وَوَهْرَةٌ: سخت مشکل میں

پھنسا دینا۔
تَوَهَّرَ اللَّيْلُ أَوْ الشَّيْءُ: رات یا سردی کا

اکثر حصہ گزر جانا..... هُ فَيَسِي الْكَلَامُ: گفتگو
میں ایسی چیز کی طرف مجبور کرنا جس سے

حیرانی ہو۔
اسْتَوْهَرَ وَاسْتِهَرًا اسْتِهَارًا بِهِ: یقین

کرنا۔
السَّوَهْرُ: دھوپ کا زمین پر اس طرح تیزی

سے پڑنا جس سے بخارات کی مانند

اضطراب ظاہر ہو۔
لَهَبٌ وَاهَرٌ: بھڑک دار شعلہ۔

السَّوَهْرَةُ: ایسی مشکل میں پھنسا جس سے
رہائی نہ ہو۔

السَّوَهْرَانُ: ڈرنے والا۔
وَهْرَةٌ يَهْرَةٌ وَهْرًا: روندنا۔ ہاتھ سے مارنا یا

ہٹانا۔ وَهْرَةٌ عَلَى كَذَا: برا بھلا کرنا۔ وَهْرٌ
الشَّيْءِ: توڑنا..... الْقَسْمَلَةُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ:

جوں کو انگلیوں کے درمیان مار دینا۔
وَهْرَةٌ: بوجھل کرنا۔

تَوَهَّرَ: سخت روندنا۔ بوجھل چال سے چلنا۔
تَوَهَّرَ خَلْفَ فُلَانٍ: کودنا اور کہا جاتا ہے "مَرٌّ

يَتَوَهَّرُ" وہ گزرا اس حال میں کہ زمین کو سخت
دہاتا ہوا چلتا ہے۔

السَّوَهْرُ: محسوس۔ پست قدم مضبوط بدن والا۔
السَّوَهْرَةُ: شرمیلی عورت کی چال۔

السَّوَهْرُ: اچھی چال والا۔
السَّوَهْرُ وَالسَّوَهْرَةُ: سخت روندنے والا۔

وَهَسَ يَهَسُ وَهْسًا الشَّيْءُ: توڑنا۔ سخت
روندنا..... الرَّجُلُ: تیز چلنا..... فِي الْأَمْرِ:

جیلہ کرنا..... غَلَسِي قَوْمَهُ: قلم کرنا۔ دست
درازی کرنا۔

وَاهَسَ مَوَاهِسَةً: تیز چلنا..... هَجْرًا
کرنا۔

تَوَهَّسَ وَتَوَاهَسَ: بوجھل چال چلنا۔ تیز
چلنا۔ تَوَهَّسَ الْإِبِلُ: اونٹوں کا اچھی چال

چلنا اور کہا جاتا ہے "تَوَهَّسَ الْأَرْضُ فِي
مِشْيَتِهِ" اس نے اپنی چال میں زمین کو بہت

دہایا۔
السَّوَهْسُ: محسوس۔ برائی۔ چغل خوری۔

السَّوَهْسَةُ: عام راستہ۔
السَّوَهْسُ: اسم مبالغہ۔ شیر۔

وَهَصَّ يَهْصُ وَهْصًا الشَّيْءُ الرَّخْوُ: نرم چیز
کو توڑنا۔ سخت روندنا۔ سختی سے بچھکانا۔ زمین

پر پتھرا..... الرَّوَّاسُ: سر کچل دینا۔ الخِيَّوَانُ:
جانور کو خسی کرنا۔

السَّوَهْصَةُ: وهص کا اسم مرہ۔ پست زمین۔

الْوَهَّاصُ: بڑا دینے والا۔
الْمَوْهَصُ: پست زمین۔ روندنے یا توڑنے
کی جگہ مَوَاهِصُ.

السَّمْوَهُوسُ وَالْمَوْهَصُ الْمَخْلُقِي: جھٹھے بدن
والا۔

الْوَهْصَةُ: پست زمین۔

وَهْطَهُ يَهْطُهُ وَهْطًا: توڑنا۔ روندنا۔ نیزہ
مارنا۔ مارنا..... الرَّجُلُ: کمزور ہونا۔

أَوْهَطَهُ: کمزور کرنا۔ مار کر ست کرنا۔

بَحَّجَاؤُنَا: مصیبت میں ڈالنا۔ اَوْهَطَ جَنَاحَ
الطَّائِرِ: پرندہ کا بازو توڑ دینا۔

تَوَهَّطَ: ٹوٹنا۔ روندنا جانا..... الْفِرَاشُ: بچھانا
..... فِي الطَّيْنِ: نرم مٹی میں غائب ہونا۔

الْوَهْطُ: مہم۔ لاغری۔ جماعت جِ اَوْهَاطُ
کہا جاتا ہے "تَبَيَّنَهُمْ اَوْهَاطُ" ان کے

درمیان بھگڑ اور شور و غل ہے۔
الْوَهْطَةُ: پست زمین جِ وَهْطُ وِوَهَاطُ.

وَهْفٌ يَهْفُ وَهْفًا وَوَهْفًا إِلَى كَذَا:
قريب ہونا..... السَّبَاتُ: سبز اور پتے والا

ہونا..... لَمْ شَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا: سامنے آنا۔
ظاہر ہونا..... وَهْفًا وَوَهْفَةً النَّصْرَانِيُّ:

گر جا کی خدمت کے لئے مستعد ہونا۔
أَوْهَفَ إِنْهَافًا الشَّيْءُ إِلَى كَذَا: قَرِيبُ

ہونا۔ اَوْهَفَ لَمْ الشَّيْءُ: سامنے آنا۔ ظاہر
ہونا۔

الْوَاهِفُ: فاجر جا کا خادم یا منتظم۔
الْوَهَافَةُ وَالْوَهْفِيَّةُ: گرجا کی خدمت۔

وَهَقٌ يَهِقُ وَهَقًا الدَّابَّةُ: جانور کی گردن میں
رستی ڈالنا..... هُ عَنْ كَذَا: روکنا۔ باز رکھنا۔

کہا جاتا ہے "وَالْقَلْبُ عِنْدَ كُمْ مَوْهَوَقٌ"
دل تم لوگوں کے پاس اٹکا ہوا ہے۔

وَاهِقٌ مَوَاهِقَةُ وَالْبَعِيرُ الْبَعِيرُ: چلنے میں
گردن لپی کر کے ایک دوسرے کے ساتھ

مقابلہ کرنا۔
أَوْهَقَ الدَّابَّةُ: جانور کی گردن میں رسی

ڈالنا۔
تَوَهَّقَ الْحَصَى: کنکریوں کا دھوپ سے گرم

ہونا..... فَلَانًا فِي الْكَلَامِ: گفتگو میں ایسی
چیز کی طرف مجبور کرنا جس سے حیرانی ہو۔

تَوَاهَقَ الْقَوْمُ فِي الْأَمْرِ: برابر ہونا یا مقابلہ
کرنا۔ تَوَاهَقَتِ الْإِبِلُ: چلنے میں گردن لپی

کر کے مقابلہ کرنا..... السَّاقِيَانِ: مقابلہ
کرنا۔

الْوَهْقُ الْوَهْقُ: رسی کر جس کے ایک طرف
پھندا ہوتا ہے اور جس کو جانور کی گردن میں

ڈالتے ہیں جِ اَوْهَاقُ.

وَهَلَ يَهْلُ وَيُوهَلُ وَوَهْلًا إِلَى الشَّيْءِ: ایسی
چیز کی طرف وہم جانا جس کا ارادہ نہ ہو۔

وَهَلَ يَسُوهُلُ وَوَهْلًا: کمزور ہونا۔ گھبرانا۔
صفت وَهْلٌ. وَهْلٌ إِلَيْهِ: فریاد طلب کرنا۔

پناہ لینا..... فِي الْأَمْرِ وَعَنْهُ: غلطی کرنا۔
بھولنا۔

وَهَلَّةٌ: خوف دلانا۔ گھبرا دینا۔
تَوَهَّلَ: غلطی میں ڈالنا۔

الْوَهْلُ وَالْوَهْلَةُ: گھبراہٹ۔ خوف۔ ڈر۔
کہا جاتا ہے "الْقَبِيئَةُ أَوْلُ وَهْلَةٍ أَوْ وَهْلِيَّةٍ أَوْ

وَاهِلِيَّةٍ" میں نے اس سے سب سے پہلے
ملاقات کی۔

وَهَمَّ بِهِمْ وَهَمًا فِي الشَّيْءِ: ایسی چیز کی
طرف وہم جانا جس کا ارادہ نہ ہو.....

الشَّيْءُ: خیال کرنا۔ تصور کرنا۔
وَهَمَّ يُوْهَمُ وَهَمًا فِي الْجَنَابِ: غلط

کرنا۔ بھولنا۔
وَهْمَةٌ: وہم میں ڈالنا۔

أَوْهَمَ إِيهَامًا: وہم میں بڑانا..... هُ: وہم میں
ڈالنا..... فَلَانًا بِكَذَا: تہمت لگانا۔ بدگمانی

کرنا..... كَذَا مِنَ الْجَنَابِ: غلطی کرنا
..... الشَّيْءُ: کھل چھوڑ دینا۔

أَتَهُمْ: تہمہ میں داخل ہونا۔ أَتَهُمَهُ بِكَذَا:
تہمت لگانا۔ بدگمانی کرنا (یہ عوام کی بول

چال میں ہے جِ اَتَهُمَةَ ہے)
أَتَهُمَهُ بِكَذَا: تہمت لگانا۔ بدگمانی کرنا..... هُ

فِي قَوْلِهِ: سچائی میں شک کرنا۔ اَتَهُمُ
الرَّجُلُ: بدنام ہونا۔ تہم ہونا۔

تَوَهَّمُ الْأَمْرَ: خیال کرنا۔ گمان کرنا۔ تَوَهَّمُ
فِيهِ الْخَيْرَ: کسی کے اندر خیر کا اندازہ کرنا۔

الْوَهْمُ: مہم۔ دل میں جو خطرہ گزرے۔ جِ
أَوْهَامُ: قوت و ہمیر پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔

قوت و ہمیر اس حس باطنی کو کہتے ہیں جس کا
کام معانی جزئیہ کا ادراک کرنا ہے جن کا

تعلق محسوسات سے ہے جیسے زید کی
شجاعت۔ سخاوت۔ بکری کی بزدلی۔ ماں کی

محبت وغیرہ..... كشادة راسه: بڑا مرد۔
مضبوط مومنو سداھا ہوا اونٹ۔ جِ اَوْهَامُ

وَوَهْمٌ وَوَهْمٌ کہا جاتا ہے "لَا وَهْمَ مِنْ
كَذَا" اس سے کوئی چارہ نہیں۔

الْوَهْمَةُ: مومنٹی اونٹنی۔
الْوَاهِمَةُ: قوت و ہمیر۔

الْوَهْمِيُّ: وہم والا۔
التَّهْمَةُ وَالتَّهْمَةُ: اِتِّهَامُ: کا اسم۔ تہمت۔

شك۔ جِ تَتَهُمُ وَتَهْمَاتُ.
التَّهْمُ: جس پر تہمت لگائی جائے۔

السَّمْوَهُوسُ مِنَ الْأَشْيَاءِ: وہم کیا ہوا تصور کیا
ہوا۔ خیال کیا ہوا۔

وَهْنٌ يَهْنُ وَهْنًا وَأَوْهَنُ: کمزور کرنا۔ وُهْنُ
وَأَوْهَنُ الرَّجُلُ: آدمی رات میں داخل

ہونا۔
وَهْنٌ: کمزور کرنا۔

وَهْنٌ وَوَهْنٌ يَهْنُ وَوَهْنٌ يُوْهِنُ وَهْنًا
وَوَهْنًا وَوَهْنٌ يُوْهِنُ وَهْنًا: کام میں ست

ہونا۔ کمزور ہونا۔
تَوَهَّنَ الْبَعِيرُ: لیٹنا..... الطَّائِرُ: پرندہ کا زیادہ

کھانے سے اُڑ نہ سکتا۔
السَّوْهَنُ: مہم..... مِنَ السَّرِجَالِ أَوْ الْإِبِلِ:

مونا پوتہ قد..... مِنَ اللَّيْلِ: آدمی رات یا
اس کے کچھ بعد..... (السَّوْهَنُ) کام میں

سستی۔ بدن میں کمزوری۔
السَّوْهُونُ: کمزور۔

السَّوَاهِنُ: فاجر کمزور۔ کندھے کی ایک رگ کا
نام۔

السَّوَاهِنَةُ: واہن۔ کامنوت۔ کمزوری۔

بازہ۔ گردن کا مہرہ۔ ریاح جو بڑھانے کے وقت کندھوں میں یا بازو میں یا ان دوڑگوں میں جن کا نام اخذ عسان ہے پیدا ہو جاتی ہے۔ سب سے نیچے کی پہلی۔ کہا جاتا ہے "انہ لشدید الوہتین" وہ مضبوط سینہ والا ہے۔

الوہتانة من النساء: ناز و نعمت کی وجہ سے کام میں سستی کرنے والی عورت۔

السوہن من اللیل: آدمی رات یا اس کے کچھ بعد۔

السوہون: کمزور۔ مومت مؤہونۃ۔

وہوہ و ہوہۃ فی صوتہ: تم یا گھبراہٹ کی وجہ سے بڑبڑانا..... الألسل فی زہیرہ: شیر کا دھارنا۔ صفت و ہوۃ۔

السوہوۃ و الوہوۃ من الخیل: تیز و چست زجل و ہوۃ: بزدل مرد۔

وہی و وہی بھئی و ہیا الثوب: کپڑے کا پھینا..... الشی: بندش و جلی ہونا۔ بوسیدہ ہونا۔ کمزور ہونا..... الحایط: دیوار کرنے کے قریب ہونا..... الرجل: بے وقوف ہونا..... الشحاب: بادل کا موسلا دھار برستا۔

أوہی اینشاء افلانا: کمزور کرنا۔ ست کر دینا۔ کہا جاتا ہے "ضربۃ فآوہی نڈۃ" اس نے اسے مارا اور اس کے ہاتھ کو توڑ دیا۔

السوہی: مس۔ شکاف۔ بھنن ج و ہسی و اوہیۃ۔

الوہیۃ: ام مرتہ۔ شکاف۔

الوہی اسم فاعل ج و اہون و وہاۃ: مومت و اہیۃ۔

السوہیۃ: موتی۔ ذبح کرنے کے لئے مونا اونٹ۔

الاوہیۃ: پہاڑ کی چوٹی سے وادی تک کا فاصلہ۔

واہ وواہ وواہا وواہالہ ووبہ: چیز کی خوبی کے لئے کلمہ تعجب گویا تم کہتے ہو "انحجب بہ ما اطمینۃ" اور ظہار افسوس کے لئے بھی آتا ہے جیسے "واہا علی منافات"۔

وئی: کلمہ تعجب جیسے وئی بسزید یعنی زید سے مجھے تعجب ہے اور ذانت ذہت کے لئے بھی

آتا ہے اور وئیل سے کتا یہ ہے تم کہتے ہو "وئیک استمع قولی" تیرا اہو میری بات پر کان لگا۔ اور وئیل کے لئے بھی

مستعمل ہے جیسے وئی بک یا فلاق۔

وئیب: یعنی ویل۔ کہا جاتا ہے "وئیبک

وئیب لک وئیب لزید وئیبالہ وئیب لہ وئیبہ وئیب غیرہ: کسرہ اور ضمیر و اسم ظاہر کی طرف اضافت کے ساتھ۔ وئیب

زید: فتح اور اضافت کے ساتھ۔ وئیب فلاق: کسرہ اور رفع کے ساتھ۔ اور معنی ہر

صورت میں ویل کے ہیں۔ یعنی اللہ اس کے لئے ویل لازم کرے اور ویب کا استعمال مقام تعجب میں بھی ہوتا ہے کہا جاتا ہے "وئیا لہذا" یعنی اس کے لئے تعجب ہے۔

السویۃ: بائیس یا چوبیس مد کا ایک پیمانہ ج وئسات (مولدۃ) السویۃ: مصیبت۔ بلا۔ رسوائی۔

وئیح: کلمہ ترحم و توجع۔ اور کبھی مدح اور تعجب کے موقع پر آتا ہے اور کہا گیا ہے کہ وئیل

کے معنی میں ہے تم کہتے ہو "وئیح بسزید وئیحاً لزید وئیحۃ" رفع ابتدا کی وجہ سے ہے اور نصب انمار کی فعل کی بنا پر۔ گویا کہ تم

کہتے ہو الزمۃ اللہ وئیحاً۔

الواخ والواخۃ: ریگستان میں سرسبز زمین ج الواخات۔

وئیح: بمعنی وئیح۔

وئیس: بمعنی وئیح اور اس کے احکام بھی وئیح: کے احکام جیسے ہیں۔

الوئیس: محتاجی۔ ارادہ کی ہوئی چیز۔ نہ چاہی ہوئی چیز۔

وئیک: کلمہ ہے جو وی اور کاف خطاب سے مرکب ہے۔

وئیل توئیلًا فلاتا ولفلان: کسی کے لئے بہت ویل کہنا۔

توئیل: ویل کو پکارنا۔ یا توئیلی: کہنا۔

تسواہیل الرجلان: ایک دوسرے کے لئے ویل ویل کہنا کہا جاتا ہے "ھما یتوایلان۔

الوئیل: شہر و برائی کا نزول۔ ہلاکت۔ جہنم کی ایک وادی کا نام کہا جاتا ہے "وئیلہ وئیلک وئیلی وئیل لزید وئیلک" نصب انمار فعل کی بنا پر رفع ابتدا کی وجہ سے

جبکہ اضافت نہ ہو اور اضافت کی صورت میں صرف نصب ہی ہوگا۔ اس وجہ سے کہ

اگر رفع دیں تو بلا خبر کے رہ جائے گا۔ کہا جاتا ہے "وئیل وائیل وئیل وئیل" یعنی

بہت زیادہ ویل۔

الوئیلۃ: بلا رسوائی۔ ج وئیلات۔

وئیلۃ: یہ مرکب کلمہ ہے اس کی اصل "وئیل لاقبہ" ہے بمعنی بدو عا کے مگر بعد


میں تعجب اور استحسان کے موقع پر استعمال ہونے لگا مانند "قاتلۃ اللہ" اور "لا آب

لک" کے۔ کہا جاتا ہے "زجل وئیلۃ وئیلۃ" ضمہ لام و کسرہ لام کے ساتھ

بمعنی چالاک و تیز فہم مرد۔

الوئیلۃ: تہمت اور بقول بعض چغل خوری۔ الوئیل: کالا انگور۔ عیب۔

الوئیلۃ: کالا خشک انگور۔ وئیلہ وئیلہ وئیلہا: کلمہ تحریش و اغراء ہے مفرد جمع مذکر مومت سب کے لئے یہی آتا ہے۔



ایسا کرنے لگا اور کہا جاتا ہے "مِنْ أَيْنَ هَبَّيْتُ" تم کہاں سے آئے۔ (..... هَبَّيْتُ وَهُبُونَا) السَّيْفُ: تلوار کا بلنا۔ فِى الْحَرْبِ: شکست کھانا۔ (..... هَبَّيْتُ وَهَبْتُ وَهَبْتُ) السَّيْفُ الشَّيْ: تلوار کا کسی چیز کو کاٹنا۔

هَبَّ (س) هَبْنَا: مدت تک غائب رہنا۔ کہا جاتا ہے "هَبَّ فُلَانٌ جِينًا ثُمَّ قَدِمَ" فلاں ایک مدت تک غائب رہا پھر آ گیا۔ "وَأَيْنَ هَبَّيْتُ عَنَّا" تم ہم سے کہاں غائب رہے؟

هَبَّيْتُ تَهَبِيْنَا النَّوْمَ: کپڑا پھانٹنا۔ أَهَبْتُ مِنْ نَوْمِي: نیند سے بیدار کرنا۔ أَهَبْتُ السَّيْفَ: تلوار کو بلانا۔ السَّيْفُ: ہوا کا چلانا۔

تَهَبَّبْتُ النَّوْمَ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ إِهْبَتُ السَّيْفَ: کاٹنا۔ اسْتَهَبَّ الرِّيحَ: ہوا کا چلانا۔

الهِبَابُ: ذرات جو دھوپ پڑنے پر روشن دان وغیرہ میں معلوم ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے "نَوْبٌ هَبَابٌ وَهَبٌ وَأَهْبَابٌ" پارہ پارہ شدہ کپڑا۔

الهِبَةُ: هَبَّ: کا اسم مرۃ۔ صبح کی باقی ماندہ ایک ساعت۔ زمانہ کی ایک مدت۔ کہا جاتا ہے "زَائِنَةُ هَبَّةٌ" میں نے اس کو ایک مرتبہ دیکھا "وَأَخَذْتُ هَبَّةَ السَّيْفِ" تلوار کے چلنے سے بچو۔

الهِبَةُ: هَبَّ: کا اسم نوع۔ حال۔ کپڑے کا

(۳) تنبیہ کے لئے اور اس کی چار صورتیں ہیں۔

(الف) اشارہ سے پہلے جیسے: هَذَا وَهَذَاكَ۔

(ب) ضمیر مرفوع جیسے "هَذَا أَنْتُمْ هَوْلَاءُ"۔

(ج) ای: کی صفت ندا کی صورت میں جیسے يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ۔

(د) قسم کی صورت میں لفظ اللہ سے پہلے حرف قسم کو حذف کے وقت جیسے "هَذَا لِلَّهِ"۔

هَسَى هَسَى: اسم صوت ہے جس سے اونٹ کو چارہ کھلانے کے لئے بلاتے ہیں۔

هَاهَا: اُونٹوں کو ڈانٹنے کی آواز۔

هَاهَا هَاهَا وَهَاهَا: ٹھٹھا مار کر ہنستا۔ صفت

هَاهَا وَهَاهَا: بالابل: اونٹ کو چارہ

کے لئے بلانا اور ہسی ہسی کہنا یا ڈانٹنا اور

هَاهَا کہنا اور اسم الہی ہے۔

جَسَارِيَةٌ هَاهَا: بہت ٹھٹھا مار کر ہنسنے والی لڑکی۔

هَوْلَاءُ: حاکمہ تنبیہ اور اَوْلَاءُ: اسم اشارہ۔

هَبَّ وَهَبَّ: اسے امر کا صیغہ ہے اور کہا جاتا ہے "هَبَّيْتُ فَعَلْتُ" غرض کر کہ میں نے کیا اور یہ کلمہ امر کا ہے جو دو مفعولوں کو نصب دیتا ہے۔

هَبَّيْتُ (ن) هَبُّونَا وَهَبِيْنَا وَهَبْنَا الرِّيحَ: ہوا کا چلانا۔ هَبَّ الرَّجُلُ مِنَ النَّوْمِ: نیند سے بیدار ہونا۔ النَّجْمُ: ستارہ کا طلوع ہونا۔

هَبَّ (ض) هَبَّ وَهَبُّونَا وَهَبِيْنَا وَهَبْنَا: چست و تیز رفتار ہونا۔ هَبَّ يَفْعَلُ كَذَا: وہ

الهِبَاءُ: یہ حرف تہجی میں چھبیسواں حرف ہے اور حرف حلقی سے ہے۔

ہ: تین صورتوں میں مستعمل ہے۔

(۱) ضمیر غائب ہے۔ مضموم باو مجرور۔ جیسے قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ "اس سے اس کے ساتھی نے باہم بات کرتے ہوئے کہا اور یہ کسرہ یا باء ساکنہ کے بعد ہو تو کسور ہوتی ہے بشرطیکہ اس کے بعد الف نہ ہو اور اس کے علاوہ مضموم ہوتی ہے۔

(۲) حرف نسبت جیسے آيَاہُ كِي هَا۔

(۳) ہاء: سکتا اور یہ حرکت یا حرف کے ظاہر کرنے کے لئے لاحق ہوتی ہے جیسے مَا هِيَاةٌ وَهَاهَاةٌ۔ وَاوَايَاةٌ۔

ہا: اس کی بھی تین صورتیں ہیں۔

(۱) اسم فعل بمعنی خُذْ: جیسے "هَذَا الْكِتَابُ"

کتاب لو۔ اس کے الف کو مدودہ کرنا بھی

جائز ہے اور یہ مدودہ مقصورہ کاف خطاب اور بغیر خطاب کے دونوں طرح مستعمل ہیں

اور مدودہ ہونے کی صورت میں کاف کو

حذف کرنا بھی جائز ہے اس طرح پر کہ حمزہ

کی گردان کاف کی گردان کی طرح کریں

اور کہیں ہاء مذکر کے لئے۔ ہَاءُ مَوْثٌ كَيْ

لئے وَهَاءُومُ جمع مذکر کے لئے۔ هَاؤُ مَا شَيْءٍ

مذکر مَوْثٌ كَيْ لِنِ هَاؤُنُ جمع مَوْثٌ كَيْ

لئے۔

(۲) مَوْثٌ كِي ضمیر منصوب جیسے ضَرَبْتَهَا

اور مجرور جیسے كَسَبْنَاهَا: ضمیر ہے اور الف

علامت تانیث۔

ایک ٹکڑا۔ تلوار کی کاٹ اور اس کا پلٹا۔ صبح کی باقی ماندہ ساعت۔ زمانہ کی ایک مدت۔

الْهَيُوبُ وَالْهَيْبَةُ وَالْهَيْبَةُ مِنَ الرِّيحِ: گردوغبار اڑانے والی ہوا۔

الْهَيْبَابُ: بہت گردوغبار اڑانے والی ہوا۔

الْمَهْبُ: ہوا چلنے کی جگہ۔ ج مَهَابٌ.

السُّهْبُ: کمزور۔ ج مَهْبُونٌ: بیدار کرنے والا۔

هَيْبَةٌ (ض) هَيْبًا: مارنا۔ کسی کا سر جھکا دینا۔

مرتبہ سے گھٹا دینا۔ ذلیل کرنا۔

هَيْبَةٌ بِالسَّيْفِ: تلوار سے مارنا۔

هَيْبَةُ الرَّجُلِ: بزدل و ہوش باختہ ہونا۔

صفتِ هَيْبٍ وَمَهْبُوتٌ.

الْهَيْبَةُ هَيْبٌ: کا اسمِ مرۃ۔ کمزوری۔ کہا جاتا ہے "فِي عَقْلِهِ هَيْبَةٌ" اس کی عقل کمزور ہے۔

الْهَيْبَةُ: پست قدم۔

هَيْبَةٌ (ف) هَيْبًا بِالْفِضَاءِ: لگا تار لٹھی سے مارنا۔

هَيْبٌ (س) هَيْبًا وَجْهَ الرَّجُلِ: چہرے کا سو جتا۔ صفتِ هَيْبٍ.

هَيْبَةٌ: متورم کرنا۔

تَهَيَّبٌ: سو جتا۔

الْمَهَيَّبُ: ست۔ بھدڑی طبیعت کا۔

هَيْبٌ (ض) هَيْبًا وَتَهَيَّبُوا اِهْتَيْبُوا الْهَيْبَةَ:

اندراٹن کا پھل توڑنا اور پکانا اور چننا۔ هَيْبٌ

فُلَانًا: اندراٹن کا پھل کھلانا۔

الْهَيْبَةُ وَالْهَيْبَةُ: اندراٹن یا اس کا دانہ۔

واحد هَيْبَةٌ.

الْهَيْبَةُ: اندراٹن کے دانے چنے والیاں۔

هَيْبٌ (ض) هَيْبًا وَهَيْبًا وَهَيْبًا وَهَيْبًا:

الْفَرْسُ او الطَّائِرُ: گھوڑے کا تیز چلنا یا پرندہ کا تیز اڑنا۔

الْهَيْبَةُ: تیز قرار دینا ج ہوا ہد۔

هَيْبٌ (ن) هَيْبًا اللَّحْمُ: گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے کا ٹٹا۔ کہا جاتا ہے "هَيْبًا مِنَ

اللَّحْمِ هَيْبَةً" اس نے اس کے لئے گوشت کے ٹکڑے کاٹے "وَهَيْبْنَا هُمُ بِالسَّيْفِ" ہم نے ان کو تلواروں سے کاٹ دیا۔

هَيْبٌ (س) هَيْبًا الْبَيْعُ: اونٹ کا زیادہ گوشت والا ہونا۔

أَهْيَبُ الرَّجُلُ: خوشنما ہونا ہونا۔

أَهْيَبُ الْبَيْعُ: اونٹ کا دبا پتلا ہونا..... فُلَانًا

بِالسَّيْفِ: تلوار سے کاٹنا۔

الْهَيْبُ: مصل۔ بغیر ہڈی کا گوشت۔ واحد

هَيْبَةٌ. الْهَيْبُ: پست زمین یا ریت کا قطعہ ج

هَيْبٌ. وَهَيْبٌ الْهَيْبُ فِي الْقِرَاءَةِ: آیت پر وقف کرنا۔

الْهَيْبُ: انگو کا ج۔ کتان سے جو گرے۔

الْهَيْبُ: بِن الْجَمَالِ: بہت گوشت والا

اونٹ۔ کہا جاتا ہے "تَهَيَّبُ هَيْبًا ذَبْرًا" بہت

گوشت اور اون والا اونٹ۔ مَوْنٌ هَيْبَةٌ.

الْهَيْبُ: کٹا ہوا۔

الْهَيْبَةُ: زوئی کے اڑنے والے روئیں۔ سر

کی بھوسی۔ ہنس اور زنگل سے جو بکھرے اور

جمع ہو کر جم جائے۔

الْهَيْبُ: بکڑی۔

الْهَيْبُ: پست زمین کہ اس کے ارد گرد بلندی

ہو ج ہَيْبٌ وَأَهْيَبَةٌ: اندام نہانی۔ کہا جاتا

ہے "ضَرْبٌ هَيْبٌ وَهَيْبٌ" گوشت کو ٹکڑے

ٹکڑے کرنے والی ضرب۔

الْهَيْبَةُ: بچو۔ أَبُو هَيْبَةَ: مینڈک۔ اُم

هَيْبَةٌ: مینڈکی۔

الْأَهْيَبُ: بہت گوشت والا۔ مَوْنٌ هَيْبٌ: ج

هَيْبٌ.

الْهَيْبَةُ: اڑنے والے پر۔ سر کی بھوسی۔

رَيْحٌ هَيْبَةٌ: غبار والی ہوا۔

الْهَيْبُ: بہت بالوں والا بندر۔

سَيْفٌ هَيْبٌ: کائے والی تلوار۔

الْهَيْبُ: تیز و سبک چال۔ مرد متکبر۔ ڈنگا کر چلنے والا۔ منقش کپڑا۔ مونا وہ گوشت تیل۔ بوڑھا ہرن۔

الْهَيْبُ: مونا وہ گوشت۔

الْمَهْيُوجُ مِنَ الْأَوْتَارِ: خراب شدہ تانت۔

الْهَيْبُ: قاریوں کا کنگن۔ نیا دینار۔ ہر خوبصورت و خوشنما چیز۔ عمدہ موزہ۔ خالص

سونا۔ وَأُمُّ الْهَيْبِ: بخار۔

تَهَيَّبُ: ناز و انداز سے چلنا۔

هَيْبٌ (ض) هَيْبًا وَهَيْبًا وَهَيْبًا: مرنا۔ یا

اچانک مرنا۔

هَيْبٌ (ن) وَهَيْبٌ (س) هَيْبًا الرَّجُلُ:

پورے ہاتھوں سے دو ہونا..... الشَّيْ: جمع

کرنا۔ پینچنا..... لَعْنًا: کمانی کرنا۔

..... فُلَانًا: تکلیف دہ مار مارنا۔

هَيْبٌ تَهَيَّبًا الْمَالُ: جمع کرنا۔

تَهَيَّبُ الْقَوْمُ: اکٹھا ہونا..... الشَّيْ: جمع

کرنا۔ کہا جاتا ہے "خَرَجَ يَهَيَّبُ لَعْنًا" وہ اپنے اہل و عیال کے لئے کمانی کرنے

کے لئے نکلا۔

أَهْيَبُ الْمَالُ: اکٹھا ہونا..... الشَّيْ: جمع

کرنا..... مِنْهُ غَطَاءٌ: حاصل کرنا۔

الْهَيْبَةُ: جماعت۔ الْهَيْبَةُ وَالْهَيْبَةُ:

مختلف قبیلوں کی جماعت۔ ج هَيْبٌ اِبْش

هَيْبَاتٌ. الْهَيْبَاتُ: کمانیاں۔

الْهَيْبُ: بہت کمانی کرنے والا۔ بہت جمع

کرنے والا۔

هَيْبٌ (س) وَهَيْبٌ (ج) هَيْبًا:

وَهَيْبًا: پھر تیزا و جلد باز ہونا..... الْكَلْبُ:

کتے کا شکار کا حریف ہونا..... عَلِي الشَّيْ:

مشاق ہو کر بے قرار ہونا۔ صفتِ هَيْبٌ.

أَهْيَبُ فِي الْعَمَلِ: جلدی کرنا..... فِي

الْمَنْسِي: تیز چلنا..... (وَأَهْيَبُ)

لِلضَّحِكِ: بہت زور سے ہنسا۔

الْهَيْبُ: تیز چال۔ کہا جاتا ہے مَشَى

الْهَيْبُ: وہ تیز چال چلا۔

هَيْبَةٌ (ن) هَيْبًا مِنَ الْجَبَلِ: پہاڑ سے

آثارنا..... المرَضُ لَحْمَةٌ: بیماری کا گوشت کو لاغر کرنا..... فَلَائِنَا: مارنا..... بَلَدٌ كَذَا: شہر میں داخل ہونا..... السُّوقُ: بازار میں پہنچنا..... السَّوَادِيُّ: وادی میں اترنا۔ صفت حَبِطًا..... فَلَائِنَا الْبَلَدُ: شہر میں داخل ہونا..... ثَمُنُ السِّلْعَةِ وَمِنْ ثَمَنِهَا: قیمت گھٹانا۔

حَبِطٌ (ض ن) حَبُوطًا الثَّمُنُ: قیمت گھٹانا۔ کم ہونا۔ فَلَائِنُ: خاکساری کرنا..... فَلَائِنٌ مِنَ الْجَبَلِ: پہاڑ سے اترنا..... مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى آخَرَ: ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ کہا جاتا ہے "حَبِطَ مِنَ الْخَشْيَةِ" اس نے خوف کی وجہ سے خاکساری کی "وَهَبَطَهُ السَّرْمَانُ" اس کو زمانہ نے مفلوک الحال بنا دیا۔

حَبِطَ الْعَدْلُ: بوری کو اونٹ پر درست کر کے رکھنا۔

أَحْبَطُهُ: آثارنا۔ أَحْبَطَ الثَّمُنُ: قیمت گھٹانا۔ تَفِئَطُ مِنْ كَذَا: نیچے اترنا..... الشَّيْءُ: پہنچنا۔

أَنْهَبَ الرَّجُلُ: نیچے اترنا۔ الْهَابِطُ: فال۔ لاغر۔

الْهَبِطُ: محس۔ نقصان۔ برائی میں پڑنا۔ ذلت۔ کہا جاتا ہے "اللَّهْمَّ غَطِّ لَاهِبِنَا" یعنی اے اللہ ہم تجھ سے اس کا سوال کرتے ہیں کہ لوگ ہم پر غلبہ کریں اور اس سے پناہ مانگتے ہیں کہ اپنی حالت سے پستی میں آجائیں۔

الْهَبِطَةُ حَبِطٌ: کا اسم مرة۔ پست و ہموار زمین۔ کہا جاتا ہے "هَمُّ فِئِ حَبِطَةٍ مِنَ الْأَرْضِ" وہ لوگ پست زمین میں ہیں۔

الْهَبُوطُ: ذحلوان۔ شیب کی زمین۔ الْهَبِطُ: د بلا پتلا لاغر۔

الْمَهْبِطُ: اترنے کی جگہ۔ الْمَهْبِطُ: گرد آئینہ۔ ایئر فیلڈ۔

الْمَهْبُوطُ: د بلا پتلا۔ رَجُلٌ مَهْبُوطٌ: محتاج و غلس مرد۔

حَبِغٌ (ف) حَبُغًا وَهَبُوعًا الْجَمَارُ: گدھے کا ست رفتار سے چلنا اور جس کی ایسی حالت ہو اس کو ہعب کہتے ہیں..... التَّبَعِيُّ: اونٹ کا گردن پھیلا کر چلنا۔ حَبِغٌ بِغُنْقَبِهِ: جلدی کرنا اور گردن کا سہارا لینا۔ صفت حَابِعٌ وَهَبُوعٌ. اسْتَبْعَ التَّبَعِيُّ: اونٹ کو گردن پھیلا کے چلوانا۔

الْهَبِيعُ: گدھا۔ اونٹ کا بچہ جو گرمی میں پیدا ہوا ہو۔ حَبِغَاتٌ وَهَبَاعٌ مَوْنُثٌ حَبِغَةٌ ج حَبِغَاتٌ. المَهْبِيعُ: اونٹ کے بچوں کا مالک۔

إِبِلٌ حَبِغٌ: گردن پھیلا کے چلنے والے اونٹ۔ حَبِغٌ (ف) حَبُوعًا وَهَبُوعًا الرَّجُلُ: سوتا۔ الْهَبِغَةُ: نیند۔

الْهَبِيعُ: بہت سونے والا۔

إِنْهَيْكَتْ بِهِ الْأَرْضُ: دھنسانا۔ الْهَيْكَةُ: احمق۔ بے وقوف۔ زمین جس میں پاؤں دھنس جائیں۔ حَبِغَاتٌ وَهَيْكٌ.

حَبِلْتُ (س) حَبِلًا فَلَائِنًا أُمَّةٌ: گم کرنا۔ بے فرزند ہونا۔ صفت حَابِلٌ بِدُوعَاكَ مَوْضِعٌ بِرَكْبَا جَاتَا ہے "حَبِلْتَهُ أُمَّةٌ" یعنی اس کی ماں اس کو گم کرے اور بسا اوقات مقام مدح و استحسان میں بولا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ کتنا بڑا عالم اور صائب الرائے ہے۔

حَبِلَ الرَّجُلُ لِعِيَالِهِ: اہل و عیال کے لئے کمائی کرنا..... فَلَائِنَا: کسی سے حَبِلْتُكَ أُمَّكُ کہنا..... اللَّحْمُ فَلَائِنَا: گوشت تہ بتہ چڑھنا۔

أَهْبَلَ الرَّجُلُ: بے اولاد کرنا۔ عقل و تمیز کھونا..... اللَّحْمُ: گوشت تہ بتہ چڑھنا۔ تَهَبَّلَ لِعِيَالِهِ: اہل و عیال کے لئے کمائی کرنا۔

إِهْبَلُ فَلَائِنٌ: بہت جھوٹ بولنا اور حیلہ کرنا..... الضَّيْدُ: ڈکار کو فریب دینا۔

لِعِيَالِهِ: اہل و عیال کے لئے کمائی کرنا۔ التَّشْيِيُّ: نقیمت جاننا۔

عَلِيٌّ وَلِدُهُ: بے اولاد کرنا۔ کہا جاتا ہے "إِهْبَلُ هَبْلَكَ" اپنی حالت کی درستی کو لازم جانو۔

الْفَيْسَلُ: کمائی کرنے والا۔ حیلہ گر۔ بت گوشت و چربی والا۔ الْهَبَالُ: ایک درخت ہے جس سے تیر بنائے جاتے ہیں۔ واحد حَبَالَةٌ. الْهَبَالَةُ: عقل و تمیز کھونا۔ جستجو۔ کہا جاتا ہے "نَالَهُ بِهَبَالَةٍ" الْهَبَالَةُ: نقیمت۔ الْهَيْسَالُ: کمائی کرنے والا۔ حیلہ ساز۔ فریب دینے والا۔ الشَّكَارِيُّ: دینے والا۔ الشَّكَارِيُّ: محس۔ حالت۔ الْهَيْبَلُ: بھڑیا۔ فریب دینے والا۔ الْهَيْبَلَةُ: بور۔

حَبِلُ: زمانہ جاہلیت کے ایک بت کا نام۔ الْاَحْبِلُ: عقل و تمیز کھونے والا۔ حَبِلُ الْهَيْبَلُ وَالْهَيْبَلُ: بڑا یا لمبا مرد۔ حیلہ جو۔ الْهَيْبَلُ: ایک درخت کا نام۔ الْهَيْسَلِيُّ: ناز کی رفتار۔ کہا جاتا ہے "هُوَ يَمْشِي الْهَيْسَلِيُّ" وہ خرام ناز سے چلتا ہے۔ الْهَيْبُولُ: بچہ گرم کرنے والی عورت۔ الْمُهْبَلُ: جس کو بد و عادی جائے کہ تیری ماں تجھے گم کرے۔ سوچے ہوئے چہرے والا بچہ گوشت۔ پاگل۔ الْمُهْبَلُ: ہلکا۔ الْمُهْبَلُ: بھوٹا۔ الْمُهْبُولُ: مفع۔ وہ جس کو اس کی ماں نے گم کر دیا ہو۔ الْمَهْبَلِقُ: پستہ قد۔ الْهَبِيقُ: بے وقوف۔ پستہ قد۔ الْهَيْبِكُ: بے وقوف۔ کمزور۔ چمچل خور۔ الْهَيْبِكَةُ: حَبِغٌ: کا مؤنث۔ ست کا بل۔

لِعِيَالِهِ: اہل و عیال کے لئے کمائی کرنا۔ التَّشْيِيُّ: نقیمت جاننا۔ کہا جاتا ہے "إِهْبَلُ كَلِمَةً جَحْمَةً" حکمت کے کلمہ کو نقیمت جان۔

عَلِيٌّ وَلِدُهُ: بے اولاد کرنا۔ کہا جاتا ہے "إِهْبَلُ هَبْلَكَ" اپنی حالت کی درستی کو لازم جانو۔

الْفَيْسَلُ: کمائی کرنے والا۔ حیلہ گر۔ بت گوشت و چربی والا۔

الْهَبَالُ: ایک درخت ہے جس سے تیر بنائے جاتے ہیں۔ واحد حَبَالَةٌ. الْهَبَالَةُ: عقل و تمیز کھونا۔ جستجو۔ کہا جاتا ہے "نَالَهُ بِهَبَالَةٍ" الْهَبَالَةُ: نقیمت۔

الْفَيْسَالُ: کمائی کرنے والا۔ حیلہ ساز۔ فریب دینے والا۔ الشَّكَارِيُّ: دینے والا۔ الشَّكَارِيُّ: محس۔ حالت۔

الْهَيْبَلُ: بھڑیا۔ فریب دینے والا۔ الْهَيْبَلَةُ: بور۔

حَبِلُ: زمانہ جاہلیت کے ایک بت کا نام۔ الْاَحْبِلُ: عقل و تمیز کھونے والا۔ حَبِلُ الْهَيْبَلُ وَالْهَيْبَلُ: بڑا یا لمبا مرد۔ حیلہ جو۔

الْهَيْبَلُ: ایک درخت کا نام۔ الْهَيْسَلِيُّ: ناز کی رفتار۔ کہا جاتا ہے "هُوَ يَمْشِي الْهَيْسَلِيُّ" وہ خرام ناز سے چلتا ہے۔

الْهَيْبُولُ: بچہ گرم کرنے والی عورت۔ الْمُهْبَلُ: جس کو بد و عادی جائے کہ تیری ماں تجھے گم کرے۔ سوچے ہوئے چہرے والا بچہ گوشت۔ پاگل۔

الْمُهْبَلُ: ہلکا۔ الْمُهْبَلُ: بھوٹا۔ الْمُهْبُولُ: مفع۔ وہ جس کو اس کی ماں نے گم کر دیا ہو۔

الْمَهْبَلِقُ: پستہ قد۔ الْهَبِيقُ: بے وقوف۔ پستہ قد۔

الْهَيْبِكُ: بے وقوف۔ کمزور۔ چمچل خور۔ الْهَيْبِكَةُ: حَبِغٌ: کا مؤنث۔ ست کا بل۔

الْمَهْبُوطُ: محتاج و غلس مرد۔

الْمَهْبُوطُ: محتاج و غلس مرد۔

الْمَهْبُوطُ: محتاج و غلس مرد۔

الْمَهْبُوطُ: محتاج و غلس مرد۔

الْمَهْبُوطُ: محتاج و غلس مرد۔

هَيْبَةُ الرَّجُلِ: تیز چلنا۔ نیند سے بیدار ہونا۔
الشَّرَابُ: شراب پچکانا۔ هَيْبَةٌ: ڈانٹنا۔

هَيْبَةُ الْكِبْرِ: مینڈھے کو ذبح کرنا۔
تَهَيَّبُ الشَّيْءَ: بلانا۔ حرکت کرنا۔

الْهَيْبَةُ: تیز رفتار۔ بٹکا پھلکا بھیریا۔

الْهَيْبَابُ: تیز رفتار۔ چلانے والا۔ شراب۔

الْهَيْبِيُّ: اچھی حدی گانے والا۔ اچھی

خدمت کرنے والا۔ پکانے والا۔ بکریوں کا

چرواہا۔ گوشت بھوننے والا۔ قصائی۔ عمدہ

طریقے سے محنت و مشقت کرنے والا۔ تیز

رفتار بٹکا پھلکا اونٹ مونتْ هَيْبِيَّةٌ.

هَبَا يَهْبُو هُبُوًا: ست چلنا۔ الْغَبَارُ: غبار کا

بلند ہونا۔ الْفَرَسُ: گھوڑے کا بھگانا۔

فُلَانٌ: مرنا۔ الرَّمَادُ: راکھ کا مٹی سے ملنا۔

أَهْبَى أَهْبَاءَ الْفَرَسِ: گھوڑے کا غبار اڑانا۔

تَهَيَّبْتُ تَهَيَّبًا: دونوں ہاتھ جھاڑنا۔

الْهَابِيُّ: فا۔ جھنسی کہا جاتا ہے "نَجْوْمٌ

هَبِيٌّ" غبار سے چھپے ہوئے ستارے۔

الْهَابِيُّ: قبر کی مٹی۔ کہا جاتا ہے "هَذَا مَوْضِعٌ

هَابِيٌّ" یہ غبار والی مٹی کی جگہ ہے

وَتُرَابٌ أَوْ مَادَّةٌ هَابٍ: نفا میں اڑنے والی

مٹی یا راکھ۔

الْهَيْبَاءُ: غبار۔ ہار یک مٹی کے ذرات جو

زمین پر بلند اور پھیلے ہوئے ہوں۔ کم عقل

لوگ۔ جِ أَهْبَاءٌ.

الْهَيْبَاءُ: غبار کا قطعہ۔

هَيْبَانَةُ الشَّجَرِ: درخت کی چھال۔

الْهَيْبُوتَةُ: گردوغبار۔ جِ هَيْبُوتَاتٍ

وَأَهْبَاءٌ (خلاف قیاس) أَهْبَاءُ الزُّوْبِنَةِ:

گولہ۔

الْهَيْبِيُّ: چھوٹا بچہ۔ مَوْنَتْ هَيْبِيَّةٌ.

الْمُنْهَبِيُّ: کمزور نظر والا۔

هَتَّ (ن) هَتًّا الْكَلَامَ: جہم نقل کرنا۔ خوش

سینٹگی سے بیان کرنا۔ الشُّوْبُ: کپڑے

پھاڑنا۔ الْعَرَضُ: آبروریزی کرنا۔

الْمَاءُ: پانی گرانہ۔ فُلَانًا: مرتبہ گھنانا۔

..... الْمَرْأَةُ غَزَلَتْهَا: عورت کا لگا تار کا تانا۔

فُلَانٌ فِئْتِي كَلَامِهِ: جلدی جلدی بولنا۔

وَزَقَ الشَّجَرَةَ: درخت کے پتے جھاڑنا۔

الشَّيْءُ: توڑنا اور چورہ کرنا۔ (هَيْبِيًّا)

الْبَحْرُ: جوان اونٹ کا آواز کرنا۔

الْهَيْبُ: مہم۔ کہا جاتا ہے "تَوَكَّلْهُمْ هَتَابًا"

اس نے اُن کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوڑا۔

الْهَيْبَاتُ: بٹکا پھلکا۔ بہت بک بک کرنے

والا۔

الْمِهْيَبُ: بمعنی هَتَات.

هَتَاةٌ يَهْتَأُ هَتَاً بِالْعَصَا وَنَحْوِهَا: لاٹھی

وغیرہ سے مارنا۔ الطَّعَامُ: کھانا۔

هَتَيْبِيٌّ يَهْتَأُ هَتَاً الرَّجُلُ: ٹیز جا ہونا۔

تَهَيَّبْتُ تَهَيَّبًا التُّوْبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔

الْهَيْبَةُ الْهَيْبَةُ وَالْهَيْبَةُ وَالْهَيْبَةُ

وَالْهَيْبَةُ وَالْهَيْبَةُ: وقت۔ کہا جاتا ہے

"مَضَى مِنَ اللَّيْلِ هَتَاءٌ" رات کا کچھ حصہ

گزر گیا۔

الْهَيْبَةُ وَالْهَيْبَةُ: شگاف۔ بچھن۔

الْأَهْبَاءُ: کپڑا۔

هَضَرَ (ض) هَضْرًا عَرَضَ فُلَانٌ:

آبروریزی کرنا۔ الْكِبْرُ فُلَانًا: بڑھاپے کا

عقل کو زائل کرنا۔

هَضَرَ عَرَضَ فُلَانٌ: بہت زیادہ آبروریزی

کرنا۔

هَاتَرَهُ مَهَاتَرَةً: بُرِيْ غَالِي دِينًا۔

أَهْتَرَ الرَّجُلُ: بڑھاپے یا مرض یا غم کی وجہ

سے عقل زائل ہونا۔ صَفَتْ مُهْتَرٌ بَفَتْحِ النَّاءِ

اور یہ شاذ ہے وَأَهْتَرَ فُلَانٌ كَيْسِيٌّ كَيْسِيٌّ

بَارِعٌ مِمَّنْ كُنْتُ كَيْسِيٌّ كَيْسِيٌّ كَيْسِيٌّ كَيْسِيٌّ

أَهْتَرُوا فِئْتِي ذِكْرِي اللَّهِ: اللہ کی یاد کرتے

ہوئے بوڑھا ہونا۔

تَهَيَّبُوا الرَّجُلَانَ: ایک دوسرے پر جھوٹا دعویٰ

کرنا اور کہا جاتا ہے "تَهَيَّبْتُ تَهَيَّبًا

الشَّهَادَاتِ" شہادتیں ایک دوسرے کے

برخلاف ہوئیں۔

أَسْتَهْتَرُ فُلَانًا: لا پرواہی کے ساتھ خواہشات

کا اتباع کرنا۔ بڑھاپے کی وجہ سے نہ بھٹنا۔

أَسْتَهْتَرُ الرَّجُلُ بِكَيْدَا: بہت فریفتہ ہونا۔

الرَّجُلُ: لغو و لا طائل افعال کا مرتکب ہونا۔

الْهَاتِرُ: فا۔ جِ هَاتِرُونَ وَهَتْرَةٌ.

الْهَيْبُ: جھوٹ۔ مصیبت۔ امر عجیب۔ بے

ہودہ گفتگو۔ رات کا نصف اول۔ جِ أَهْتَارُ

کہا جاتا ہے "فُلَانٌ هَتْرٌ أَهْتَارٌ" فلاں بڑا

چالاک ہے۔

الْهَيْبُ: بڑھاپے یا مرض یا غم کی وجہ سے عقل

کی خرابی۔

التَّهَيَّبُ: ایک دوسرے کے خلاف شہادتیں۔

التَّهَيَّبُ وَالْمُهْتَرُ: حماقت و جہالت۔

المُهْتَرُ: کسی چیز کے متعلق کچھ کہتے رہنے پر

فریفتہ۔ بڑھاپے یا مرض یا غم کی وجہ سے

خراب عقل والا۔ الرَّجُلُ مُهْتَرٌ كَفْتَلُوْا مِثْلَ

خطا کار۔

المُسْتَهْتَرُ بِالشَّيْءِ: سخت فریفتہ۔ بہت باطل

کار آدمی۔

الْمُهْتَرُ: شیر۔ سخت و مشکل زمانہ۔

هَتَشٌ (ض) هَتَشًا الْكَلْبُ: کتے کو

برا بھینچنا کرنا۔ اُكْسَانًا: کہا جاتا ہے "هَتَشُ

الْكَلْبِ فَاهْتَشُ" کتے کو بھڑکایا گیا وہ

بھڑک گیا۔ (اور یہ کتے اور درندوں ہی

کے لئے خاص ہے)

هَتَعَ (ف) هَتَعًا إِلَى قَوْمِهِ: جلدی متوجہ

ہونا۔

هَتَفْتُ (ض) هَتَفًا وَهَتَاةً الْحَمَامَةُ:

کبوتری کا کوکو کرنا۔ (..... هَتَاةً) فُلَانٌ

بِفُلَانٍ: چلا کر بلانا۔ فُلَانًا وَبِفُلَانٍ:

تحریر کرنا۔

هَتَفْتُ تَهَيَّبًا الْحَمَامَةَ: کبوتری کا نوحہ

کرنا۔

الْهَاتِفُ: ٹیلیفون۔

الْهَاتِفُ: فا۔ جس کی آواز سنائی دے اور

دکھائی نہ دے۔ ٹیلی فون۔ تم کہتے ہو

"سَمِعْتُ هَاتِفًا يَهْتِفُ" جبکہ تم آواز سنو اور

کوئی دکھائی نہ دے۔ کہا جاتا ہے قَسْوَسٌ

هَمَمٌ (ض) هَمَمًا فَاةٌ: اگلے دانتوں کو توڑنا۔
 التَّيْبَةُ: جڑ سے توڑنا۔
 هَمِيمٌ (س) هَمِيمًا: سامنے کے جڑ سے ٹوٹے ہوئے دانتوں والا ہونا۔ صفت اَهْتَمَمَ: مؤنث هَمَمًا ج هَمِيمٌ۔
 هَمَمَةٌ بِالضَّرْبِ: مار مار کر ضعیف و کمزور کر دینا۔
 اَهْتَمَمَ: دانتوں کو توڑنا۔
 تَهْتَمَتِ الشَّيْءُ: ٹوٹنا۔ کہا جاتا ہے "تَهْتَمَتِ اسْئَلَةٌ" اس کے دانت ٹوٹ گئے۔
 تَهَاتَمَا: ایک دوسرے پر جھوٹا دعویٰ کرنا۔
 الهَتَامَةُ: ٹوٹا ہوا کلا۔
 هَمَمَ الرَّجُلُ: بہت بولنا۔
 هَمَلُ الرَّجُلِ: آہستہ بولنا۔ الرَّجُلَانِ: دوسرے سے چھپا کر چپکے چپکے باتیں کرنا۔
 الهَمَلَةُ: پوشیدہ بات۔
 هَمَّتْ (ض) هَمَّتًا وَهَمَّتُونَا وَهَمَّتَانَا وَتَهَاتَمْنَا وَتَهَاتَمَتِ السَّمَاءُ: آسمان سے لگا تار بارش ہونا۔ الدَّمْعُ: آنسو کا ٹپکانا۔
 الهَمَنُ: لگا تار بارش۔
 سَحَابٌ هَامِنٌ وَهَمُونٌ: لگا تار بارش والا بادل ج هَمِنٌ وَهَمِنٌ. عَيْنٌ هَمُونٌ الدَّمْعُ: لگا تار آنسو ٹپکانے والی آنکھ۔
 التَّهْمَانُ: لگا تار برسنے والی بارش۔
 هَمَّتِ الشَّيْءُ: توڑنا۔ فِي السَّلَامِ: جلدی جلدی بولنا۔ التَّجِيرُ: اونٹ کو "هَمَّتْ هَمَّتْ" کہہ کے پینے کے وقت ڈانٹنا۔
 الهَمَهَاتُ: بک بک چلنا۔ جلدی بولنے والا۔
 هَمَاتٌ يَهْمُوهُ هَمَاتٌ: بیروں سے روند کر توڑنا۔
 هَمَاتَةٌ مَهْمَاتَةٌ: دنیا (اس فعل کی گردان غلطی کی گردان کی مانند ہے) کہا جاتا ہے "هَمَاتٌ يَارَجُلُ" اے مردوے "وَهَمَاتِي يَا امْرَأَةٌ" اے عورت دے "وَمَا اَهْمَاتِيكُ" میں تم کو نہیں دوں گا۔
 هَمَّتْ (ن ض) هَمَّتًا: جھوٹ بولنا۔ صفت هَمَاتٌ: یعنی جھوٹا۔
 هَمَرَمٌ هَمَرَمَةٌ: بہت بولنا۔

هَمَامَةٌ وَهَمُوفٌ وَهَمُفِيٌّ: آواز دینے والی کمان۔ خَمَامَةٌ هَمُوفٌ: بہت کو کو کرنے والی کبوتری۔ رَمُوحٌ هَمُوفٌ: ساتیں ساتیں کرنے والی ہوا۔ سَحَابَةٌ هَمُوفٌ: گرجنے والا بادل اور ارم الهَمُفِيٌّ ہے۔
 الهَمَفُ وَالهَمَاتُ: مصل۔ سخت۔ بلند آواز۔
 هَمَكٌ (ض) هَمَكًا التَّيْرُ وَنَحْوُهُ: پردہ پھاڑنا۔ کاٹ کر علیحدہ کرنا۔ یا کچھ تھوڑا سا سوراخ کرنا تاکہ پردہ کے پیچھے کی چیز ظاہر ہو جائے۔ القُوبُ: کپڑے کو لہا پھاڑنا۔
 کہا جاتا ہے "هَمَكَ اللَّيْلُ بِسُرِّ الْفَاجِرِ" یعنی اللہ تعالیٰ فاجر کو رسوا کریں۔ "وَهَمِيكَ عَرَشُهُ" جبکہ عزت جاتی رہے۔
 هَمَكَ التَّيْرُ: بمعنی هَمَكٌ: تشریح یہ مبالغہ کے لئے ہے۔
 تَهَمَّتْ وَانْتَهَكَ التَّيْرُ وَنَحْوُهُ: پردہ کا پھٹنا۔ تَهَمَّتْ فَلَانٌ: رسوا ہونا۔ فِي السَّلَامَةِ: بہادری میں جھوڑنا۔
 هَمَاتٌ مَهْمَاتَةٌ: باہم رات کی تاریکی میں چلنا۔ کہا جاتا ہے "هَمَاتْنَا اللَّيْلُ" یعنی رات کی تاریکی میں ہم نے سفر کیا۔
 الهَمَكُ: آدمی رات۔
 قُوبٌ هَمِيكٌ: پارہ پارہ شدہ کپڑا۔
 الهَمِيكَةُ: پردہ دری۔ رات کی ایک ساعت۔
 الهَمِيكَةُ: رسوائی۔ بے عزتی۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ مَهْمِيكٌ وَهَمِيكٌ وَهَمِيكٌ" بے عزتی سے لا پرواہ۔ رسوا۔ بدنام۔
 الهَمَكُ: پارہ پارہ شدہ۔
 هَمَلَتْ (ض) هَمَلًا وَهَمُولًا وَتَهَاتَلًا هَمَلَاتَا السَّمَاءُ: آسمان کا لگا تار برسنا۔
 سَحَابٌ هَمَلٌ: لگا تار برسنے والے بادل۔
 الهَمَلَانُ: بگی لگا تار بارش۔
 هَمَلَمَ هَمَلَمَةُ الرَّجُلَانِ: دوسروں سے چھپا کر چپکے چپکے باتیں کرنا۔
 الهَمَلَمَةُ: مصل۔ پوشیدہ بات۔

هَمَمَةٌ (ض) هَمَمًا: کوٹ کر باریک کرنا۔
 هَمَمٌ لَهُ مِنْ مَالِهِ: یکبارگی عمدہ مال دینا۔
 الهَمِيمُ: ایک کھٹے مزے کا درخت۔ شجر اور بقول بعض گلدہ یا عقاب کا بچہ۔ سرخ رنگ کا ریت کا ٹیلہ۔
 هَمَمَةٌ هَمَمَةُ الشَّيْءِ: مخلط ہونا۔
 الوَالِي النَّاسُ: ظلم کرنا۔ السَّحَابَةُ بِقَطْرِهَا: بہت زور سے برساتنا۔ الشَّيْءُ: سخت روندنا۔
 الهَمَمَهَاتُ: جلدی کرنے والا۔ شَيْءٌ هَمَمَهَاتٌ: ملی ہوئی بے ترتیب چیز۔ رَجُلٌ هَمَمَهَاتٌ: جھوٹا مرد۔
 الهَمَمَهَةُ: مصل۔ لڑائی میں مخلط آوازیں۔
 هَمِيٌّ يَهْمِي هَمِيًّا التَّرَابُ: مٹی ڈالنا۔
 هَمَاتَةٌ مَهْمَاتَةٌ: مذاق اڑانا۔
 هَمَجٌ (ن) هَمَجًا وَهَمَجِيًّا الْبَيْتُ: گھر ڈھاننا۔ هَمِيًّا: آکھ کا ڈھنس جانا۔
 النَّارُ: آگ کا زور سے بھڑکنا۔ هَمَجٌ النَّارُ: آگ زور سے بھڑکانا۔
 وَهَمَجَتِ عَيْنُهُ: آنکھ ڈھنس جانا۔
 اِهْمَجَ فِي الْأَمْرِ: دیر لگانا اور کسی سے مشورہ نہ کرنا۔
 اِسْتَهْمَجَ قَلَانٌ: خود رائے ہونا۔ السَّيَارَةُ او القَائِلَةُ: تیز چلانا۔
 عَيْنٌ هَامَجَةٌ: خمسی ہوئی آنکھ۔
 الهَمَجَاجُ: تیز چال۔ کہا جاتا ہے "زَكَبَ هَمَجَاجٌ" یعنی علی اکبر یعنی وہ خود رسوا (اور کبھی ہَمَجَاجُ کے آخر کو تیز بھی دیا جاتا ہے) اور اگر کوئی شخص لوگوں کو کسی چیز سے روندنا چاہتا ہے تو کہتا ہے "هَمَجَاجِيكُ وَهَذَا ذِكْرٌ" یعنی دور رہو۔
 الهَمَجَاجَةُ: گردوغبار جو ہر چیز کو ڈھانپ لے۔ بے وقوف۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ هَمَجَاجَةٌ"۔
 الهَمِيحُ: بیل کی گردن کا جوا۔
 الهَمِيحُ: پوکھڑے۔

الْمُهَيَّبُ: مَص - گہری وادی۔ بس زمین جو چلنے والوں کو جلدی لائے۔ کہانت کی لکیریں جو زمین پر کھینچیں جائیں۔ جِ هَيَّجَانِ

الْإِهْجِيحُ: گہری وادی۔
عَيْنٌ مُهَيَّبَةٌ: دھنسی ہوئی آنکھ۔
الْمُهَيَّبُ: فَا - دھنسی ہوئی آنکھ والا۔
الْمُسْتَهَيَّبُ: ہر حق و ناحق میں بولنے والا۔
هَجَجًا يَهْجَأُ هَجْجًا وَهَجْوَةً جَوْعَةً: بھوک بند ہونا (..... هَجْجًا) الطَّعَامُ: کھانا.....
بَطْنُهُ: پیٹ بھرنا..... هُ الطَّعَامُ: آسودہ کر دینا۔

هَجِيحٌ يَهْجَأُ هَجْجًا: بہت بھوکا ہونا۔
أَهْجَأَ إِهْجَاءَ جَوْعَةٍ: بھوک زائل کرنا۔
فُلَانًا حَقًّا: حق ادا کرنا..... فُلَانًا الشَّيْءُ: کسی کو کچھ کھلانا۔

تَهَجَّأَ الْحُرُوفُ: جچے کرنا۔
الْهَجْجُ: پرہیز جو تمہارے اندر ہو اور ختم ہو جائے۔

الْهَجْجَةُ: بے وقوف مرد یا عورت۔
هَجَبٌ (ش) هَجْبًا: ہانکتا۔ دوڑنا۔ لاشی سے مارنا۔

هَجَدَ (ن) هَجْوَدًا: رات میں سونا۔ بیدار رہنا (ضد) اور بقول بعض هَجْوَدٌ دن میں سونے اور هَجْوَعٌ رات میں سونے کیلئے ہے۔

هَجَدَ تَهْجِيدًا الرَّجُلُ: بیدار ہونا۔ رات میں سونا۔ رات میں نماز پڑھنا..... فُلَانًا: جگانا۔ سلانا (ضد)

أَهْجَدَ الرَّجُلُ: سونا..... فُلَانًا: سلانا۔ سونا ہونا۔

تَهَجَّدَ الرَّجُلُ: رات میں سونا۔ بیدار رہنا۔
الْهَاجِدُ: سونے والا۔ رات میں نماز پڑھنے والا جِ هَجْوَدٌ وَهَجْدٌ۔

الْهَجْوُدُ: رات میں نماز پڑھنے والا۔ جِ هَجْوُدٌ وَهَجْدٌ۔

التَّهْجُدُ: مَص - رات کی نماز۔

السُّهْجِدُ: فَا - رات کی نماز کے لئے نیند سے بیدار ہونے والا۔ ازہری کا قول ہے کہ کلام عرب میں هَاجِدٌ کا اطلاق رات میں سونے والے پر اور تَجْدٌ کا رات میں نماز کے لئے بیدار ہونے والے پر ہے۔

هَجْرَةٌ (ن) هَجْرًا وَهَجْرًا: قَطْعُ تَعْلُقِ كَرْنَا - چھوڑنا۔ هَجْرًا الشَّيْءُ: ترک کرنا۔

اعراض کرنا..... زَوْجَةٌ: بغير طلاق دیئے ہوئے الگ ہونا (..... هَجْرًا وَهَجِيرًا) وَهَجِيرًا: فَيُ نَوْمُهُ او مَرَضُهُ: نیند یا مرض میں بکواس کرنا (..... هَجْرًا) بے فی النوم: خواب دیکھنا (..... هَجْرًا وَهَجْوَرًا)

الْبَجِيرُ: پاؤں باندھنے کی ریش سے باندھنا۔ هَجْرُ الْقَوْمِ: دوپہر میں چلنا..... النَّهَارُ: سخت گرم ہونا..... إِلَى الشَّيْءِ: سویرے جانا اور سبقت کرنا۔

هَاجَرَ مَهَاجِرَةً مِنَ الْبَلَدِ وَعَنْهُ: ہجرت کرنا۔
أَهْجَرَهُ إِهْجَارًا: چھوڑنا۔ أَهْجَرَ الْقَوْمُ: دوپہر میں چلنا۔ أَهْجَرَ فِي مَنْطِقِهِ: بکواس کرنا..... بِفُلَانٍ: ٹھسٹھا کرنا اور بری بات کہنا۔

تَهَجَّرَ الْقَوْمُ: دوپہر میں چلنا..... فُلَانٌ: مہاجرین کے مشابہ ہونا۔
تَهَاجَرُوا وَاهْتَجَرُوا: باہم قطع تعلق کرنا۔ تَهَاجَرُوا وَالْمَاءَ: لیمانہ۔

إِهْتَجَرَهُ: چھوڑنا۔
الْهَاجِرُ: اسم فاعل - شَيْءٌ هَاجَرَ: نہایت عمدہ چیز۔

الْهَاجِرَةُ: الْهَاجِرُ: گرمی کا دوپہر یا زوال آفتاب سے عمر تک کا وقت۔ سخت گرمی۔ جِ هَاجِرَاتٌ وَهَاجِرَاتٌ اور کبھی هَاجِرَةٌ ان مصادر میں سے ہوتا ہے جو فاعل کے وزن پر آتے ہیں جیسے عَاقِبَةٌ وَعَاقِبَةٌ: وغیرہ۔ نَاقَةٌ هَاجِرَةٌ: عمدہ اونٹنی اور کہا جاتا ہے "زَمَانَةٌ بِهَاجِرَاتٍ" اس نے اس کو انعال فاحشہ سے منہم کیا۔

الْمُهَاجِرِيُّ: بہت عمدہ۔ اعلیٰ وفاق۔ معمار۔ شہری۔

هَاجِرَةٌ: حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی۔

الْمُهَنْجِرُ: مَص - حفاظت کے قابل چیز کا چھوڑنا۔ بہت عمدہ۔ مہار۔ دوپہر۔ سخت گرمی۔ کہا جاتا ہے "الْقَيْتَةُ عَنْ هَجْرٍ" میں اس سے ایک سال کے بعد یا چھ روز یا اس سے زائد یا ٹھیک ہیبت کے بعد ملا۔ "وَذَهَبَتِ الشَّجَرَةُ هَجْرًا" یعنی درخت لبا اور بڑا ہو گیا۔

الْمُهَجْرُ: عمدہ اونٹ یا اونٹنی۔
الْمُهَيْجِرُ: قَبِيحٌ كَثَلُو - فحش گوئی۔ اِهْجَارُ كَا - اسم۔

الْمُهَجْرُ: نہایت عمدہ۔ آہستہ چلنے والا۔
الْأَهْجَرُ: اسم تفضیل اور کہا جاتا ہے "هَذَا أَهْجَرُ مِنْ ذَاكَ" یعنی یہ اس سے لبا مونا بڑا ہے۔

الْمُهَجْرَاءُ: قَبِيحٌ كَثَلُو - کفایت کہا جاتا ہے "مَا بَعْدَهُ غِنَاءٌ ذَلِكَ وَلَا هَجْرًا" اس کے نزدیک نہ تو اس کے لئے غنا ہے اور نہ کفایت۔

الْمُهَجْرَةُ: هَجْرُ: کا اسم مرہ۔ موٹی عورت۔
الْمُهَجْرَةُ: هَجْرُ: کا اسم نوع۔ تہاجر کا اسم۔
الْمُهَجْرَةُ وَالْمُهَجْرَةُ: ترک وطن۔ ایک ملک سے دوسرے ملک کو جانا۔
الْمُهَجْرُ: دیہات میں منتقل ہونا۔
الْمُهَجْرِيُّ: دوپہر۔ سخت گرمی۔ بڑا اور کشادہ خوش۔ بڑا پیالہ۔ جما ہوا دودھ۔ مونا گورخ۔ پاؤں باندھنے کی ریش سے بندھا ہوا اونٹ جِ هَجْرُ۔
الْمُهَجْرِيُّ: کوڑا اور بصرہ کے درمیان کا علاقہ۔
الْمُهَجْرِيُّ: دوپہر۔ سخت گرمی۔
الْمُهَجْرُ: تانت۔ طوق۔ تاج۔ اونٹ کے پاؤں باندھنے کی ریش۔
الْمُهَجْرِيُّ وَالْمُهَجْرِيُّ: عادت۔
الْمُهَجْرِيُّ: هَجْرُ فِي نَوْمِهِ او مَرَضِهِ: کا

مصدر عادت۔ کہا جاتا ہے "هَذَا هَجِيرَاهُ"

یہ اس کی عادت ہے۔

الهِجْرَاءُ: عادت۔

الهِجْرِيُّ: دو پہر کے وقت کا کھانا۔

الْأَهْجُورَةُ وَالْإِهْجِيرِيُّ وَالْإِهْجِيرَاءُ:

عادت۔

السُّهْجِر: شریف۔ خوبصورت۔ ہر چیز سے

عمدہ۔ دوسروں سے بڑھا چڑھا۔ عَدَدٌ

مُهْجِر: بہت عمدہ۔ کہا جاتا ہے "زَمَاءُ

بِسْمُهْجِرَاتٍ" اس نے اس کو افعال قبیلہ سے

متمم کیا۔

الْمُهَاجِر: ہجرت کے مقامات۔ کہا جاتا ہے

"تَكَلَّمْتُ بِالْمُهَاجِرِ" اس نے فحش گفتگو کی۔

السُّهْجُور: مفتح۔ بیمار یا سوائے ہونے کی

بکواس۔ وہ لفظ جس کا استعمال چھوڑ دیا گیا

ہو۔

الهِسْحَرِس: گنور۔ لومڑی اور بقول بعض

لومڑی کا بچہ۔ ریچھ۔ نالائق آدمی ج

هَجَارِسُ الْهَاجِرِس: زمانہ کی سختیاں۔

الهِجْرِعُ وَالهِجْرِعُ: بے وقوف پاگل۔

لِبَعْدِ قَدِّ الْكَلْبِ: ایک بہترین قسم کا شکاری

کتا۔

هَاجِرَةٌ مُهَاجِرَةٌ: چپکے چپکے بات کہنا۔

هَجَسَ (ن ح) هَجَسَ الشَّيْءُ فَيُنِي

صَلْبَهُ: وسوسہ گزرتا..... فَلَانًا: کام سے

روکنا۔

هَاجِسَةٌ: چپکے چپکے بات کہنا۔

إِنْهَجَسَ عَنِ الْأَمْرِ: باز رہنا۔

الهِاجِس: فاعل۔ اندیشہ وسوسہ ج ہوا جس

الهِجَس: مفعول۔ پست آواز جو سنائی دے

اور سمجھ میں نہ آئے۔ اندیشہ۔ وسوسہ۔

الهِجْس: آواز کو سننے والا شیر۔

الهِجِيعَةُ: مشکیزہ میں بگڑا ہوا دودھ۔

حَيْبٌ مِّنْهُجَس: فطیری روٹی بے خمیر کی

روٹی۔

السُّهْجُوسُ: مفتح۔ کہا جاتا ہے "وَقَعُوا فِي

مِنْهُجُوسٍ مِنَ الْأَمْرِ" وہ گڑبڑی میں پڑ

گئے۔

هَجَشَ (ن) هَجَشْنَا: اسانا..... الدَّائِبَةُ:

چوپایہ کو زری سے ہانکنا..... بَيْنَ الْقَوْمِ: فساد

ذُنَا: هَجَشْتُ لَهُ نَفْسِي: بہت خواہش

مند ہونا۔

الهِجَاجِشَةُ: لوگوں کی جماعت۔ ج

هَوَاجِشُ: کہا جاتا ہے "جَاءَتْ هَاجِشَةٌ

مِنَ النَّاسِ" لوگوں کی جماعت آئی۔

الهِجْجِشَةُ: اسمِ مرءة۔ اٹھنا۔

هَجَجَ (ف) هَجُوعًا وَتَهَجُّعًا: رات میں

سونا۔ سونا اور کہا جاتا ہے "هَجَجَ جُوعُهُ

هَجَجًا فَهَجَجَ جُوعُهُ هَجُوعًا" اس نے اس

کی بھوک کو تسکین دی۔ پس اس کی بھوک

تسکین پا گئی (لازم و متعدی) "وَهَجَجْتُ

إِلَيْهِ فَخَذَ عَنِّي" میں اس سے مانوس ہوا اور

اس کے سامنے جھک گیا اور اس نے مجھے

دھوکا دیا۔

هَجَجَ تَهَجُّعًا الْقَوْمُ: سونا۔

أَهَجَجَ جُوعُهُ: بھوک کو تسکین دینا۔

الهِاجِعُ: فاعل۔ ج هَجُوعٌ وَهَجَجَ.

الهِاجِعَةُ: رات میں سونے والی ج هَجَجَ

وَهَجُوعٌ وَهُوَاجِعٌ وَجَّ هَوَاجِعَاتُ.

الهِجْعُ وَالهِجْعُ وَالهِجْعُ وَالهِجْعَةُ: غافل

بے وقوف۔ الهِجْعَةُ: بہت سونے والا۔

الهِجْعَةُ: هَجَجَ: کا اسمِ مرءة۔ کہا جاتا ہے

"أَتَيْتُ فَلَانًا بَعْدَ هَجْعَةٍ" میں فلاں کے

پاس ابتدائی رات میں تھوڑی سی نیند کے

بعد آیا۔

الهِجْعَةُ: هَجَجَ: کا اسمِ نوع۔ رَجُلٌ هَجْعَةٌ:

غافل بے وقوف مرد۔

الهِجْجِعُ مِنَ اللَّيْلِ: رات کا ایک حصہ۔ کہا

جاتا ہے "مَضَى هَجْجِعٌ مِنَ اللَّيْلِ" رات کا

ایک حصہ گزر گیا۔

التَّهْجَاعُ: ہلکی نیند۔

المَهْجِعُ: غافل بے وقوف۔ ہر ایک کا مطبوع

و فرما نیر دار۔

هَجَفَ (س) هَجَفًا: بھوکا اور ڈھیلے پیٹ

والا ہونا۔ کوکھ کا پہلوؤں سے لگا ہوا ہونا۔

إِنْهَجَفَ: لاغری کی وجہ سے نکلے ہوئی ہڈیوں

والا ہونا۔

الهِجْفَانُ: پیاسا۔

الهِجْفُ: سخت بدن سُست (شتر مرغ یا

آدمی) موٹا اور لمبا آدمی۔ بڑے پیٹ

والا۔

الْأَهْجَفُ: ڈبلا۔ مَوْتٌ هَجْفَاءُ.

هَجَلُ (ن) هَجَلًا بِالْقَصَبِ وَغَيْرِهَا:

پھینکنا۔ هَجَلَتِ الْمَرْءَةُ بِغَيْرِهَا: آنکھ مارنا۔

هَجَلٌ عَرَضٌ: بے عزتی کرنا..... يَفْلَانُ:

فحش سنانا اور گالی دینا۔

هَاجِلٌ مُهَاجِلَةٌ: پست اور ہموار زمین میں

چلنا..... فَلَانًا: مقابلہ کرنا۔

أَهْجَلُ الْإِبِلِ: اونٹوں کو بیکار چھوڑ دینا.....

الشَّيْءُ: کشادہ کرنا..... السَّمَالُ: نال ضائع

کرنا..... الْقَوْمُ: قوم کا پست اور ہموار زمین

میں آنا۔

إِهْتَجَلُ الشَّيْءُ: ایجاد کرنا۔

الهِسْجَلُ: فاعل۔ سونے والا۔ بہت سخر کرنے

والا۔

الهِسْجَلُ: مفعول۔ پست و ہموار زمین۔ ج

أَهْجَلٌ وَهَجَلٌ وَهَجُولٌ.

الهِسْجَلَةُ: هَجَلُ: کا اسمِ مرءة۔ پست و ہموار

زمین۔ ج هَجَلَاتُ.

الهِسْجُولُ: بدکار عورت۔

الهِسْجِيلُ: پست و ہموار زمین۔ حوض جو اچھی

طرح سے نہ بنا ہو۔

دُسُوعٌ هَسْجُولٌ: پینے والے آنسو۔ مفرد

ہاجل۔

هَجَمَ (ن) هَجُمًا عَلَيْهِ: غفلت کی حالت

میں اچانک آنا۔ یا بغیر اجازت کے آنا.....

الْبَيْتُ: مکان کا گھرنا..... الْبَسْرَةُ أَوِ الشَّتَاءُ:

سردی یا جاڑے کا جلدی شروع ہونا.....

هَجَمًا: فَلَانًا: دخت کرنا۔ دفع کرنا..... فَلَانًا

عَلَى الْقَوْمِ: اچانک لانا..... الدَّائِبَةُ: چوپایہ

کو زور سے ہانکنا..... الْبَيْتُ: گھر کو ڈھانپنا

الهِجْمَةُ: كَأَنَّهَا دَوَّهَةٌ -
 الْهَجْمِيُّ: كَيْفِيَّةٌ - وَهِيَ جَسَدٌ كَمَا بَانَدِيٌّ أَوْ
 بَابٌ عَرَبِيٌّ هُوَ - هَجْنٌ وَهَجْنَاءٌ وَهَجْنَانٌ
 وَمَهْجَانٌ وَمَهْجَانَةٌ مَوْثٌ هَجْنَةٌ هَجْنٌ
 هَجْنٌ وَهَجْنَانٌ وَهَجْنَانٌ كَمَا جَاءَتْ
 "فَرَسٌ وَيَسْرُ ذَوْنُهُ هَجْنٌ" خَرَابٌ لَسَلٌ كَمَا
 كُوزٌ أَوْ تَرَكِيٌّ كُوزٌ أَوْ الْهَجْنِيُّ مِنَ الْخَيْلِ:
 تَرَكِيٌّ كُوزِيٌّ أَوْ عَرَبِيٌّ كُوزِيٌّ سَيِّدٌ أَسَدٌ
 كُوزَانٌ هَجْنٌ وَهَوَاجِنٌ. لَبَنٌ هَجْنِيٌّ:
 دَوَّهَةٌ جَوْنَةٌ تَلَا هُوَنَةٌ كَا ثَرَاهَا -

عِلْمَةٌ أَهْنِيَّةٌ: بَلُوغٌ سَيِّدٌ شَادِيٌّ شَدِيدٌ
 لُرَكٌ -
 الْمَهْجَنَةُ وَالْمَهْجَنِيُّ وَالْمَهْجَنِيُّ
 وَالْمَهْجَنَاءُ: نَاكَرَةٌ لَوُكٌ -

الْمَهْجَنَةُ مِنَ الشُّوقِ: تَهَانٌ كِي جَانِبِ
 مَنْسُوبٌ أَوْ مَنِيٌّ جَوَاطِيهِ نَسْلٌ هُونَةٌ كِي وَجْهٍ سَيِّدٌ
 خَرَابٌ لَسَلٌ كَمَا جَاءَتْ سَيِّدٌ بَارِكِيٌّ جَاءَتْ -
 كُجُورٌ كَا دَرِخْتٌ جَسَدٌ بِرَبِيَّةٍ مَرْتَبَةٌ كُجُورٌ كَا
 بِحُولٌ ذَالَا جَاءَتْ - أَوْ مَنِيٌّ جَوَاطِيهِ مَرْتَبَةٌ حَامِلَةٌ
 هُوَ -

الْمَهْجَنَةُ: كُجُورٌ كَا دَرِخْتٌ جَسَدٌ بِرَبِيَّةٍ بَارِكِيٌّ
 كُجُورٌ كَا بِحُولٌ ذَالَا جَاءَتْ - كُجُورٌ جَوَاطِيهِ
 هُونَةٌ كِي بَاوَدٌ بِحُولٌ دَسٌ - بِحِيٌّ -
 الْهَجْنَفُ: لِسَاوَةٌ جَانِبِيٌّ
 هَجْنَفٌ الْفَعْلُ فِي هَدْيِيَّةٍ: زَوْرٌ سَيِّدٌ أَوْ
 نَاكَرَةٌ -

الرَّجُلُ: كَمَا جَاءَتْ سَيِّدٌ بَارِكِيٌّ
 الْجَمَلُ أَوْ بِالْجَمَلِ: "هَجْجٌ هَجْجٌ" كَمَا جَاءَتْ
 رُكْنٌ كِي لَكِي ذَانَةٌ -
 الْهَجْجَانُ: بَعْدُ وَقُوفٌ - بَاوَدٌ كَمَا جَاءَتْ
 وَاللَّ - بَعْدُ بَارِكِيٌّ وَاللَّ أَوْ نَتٌ - لِسَاوَةٌ
 أَوْ نَتٌ - مَضِيٌّ بَارِكِيٌّ عَمْرٌ سَيِّدٌ - بَلُوغٌ
 هَجْجَانُ: تَبِيٌّ هَاوَدٌ -

الْهَجْجَانَةُ: كَمَا جَاءَتْ سَيِّدٌ بَارِكِيٌّ
 هَجْجَانٌ مَاءٌ هَجْجَانٌ: بَابِيٌّ جَوْنَةٌ كَاهَرِيٌّ هُوَ
 نَتٌ -

هَجْجَانَةٌ هَجْجَانَةٌ هَجْجَانَةٌ وَهَجْجَانَةٌ
 مَعَابِرٌ شَارِكَةٌ - عَيْبٌ كَاهَرِيٌّ كَرَانٌ - كَالِيٌّ

الْهَجْمِيُّ: كَأَنَّهَا دَوَّهَةٌ -
 الْأَهْتَجَامُ: رَاتٌ كَا آخِرِيٌّ صَدٌ -
 الْمَهْجُومُ: مَفْعٌ - نَيْتٌ مَهْجُومٌ: كَرَاهِيٌّ هُوَ
 كَهْرٌ - خَيْرٌ جَسَدٌ كِي طَنَائِيهِ كُوزٌ دِي جَاءَتْ -
 الْهَجْمَانَةُ: مَوْثِيٌّ - تَرَكِيٌّ -
 هَجْنٌ (نَ مَن) هَجْنَانٌ: بَابِيٌّ هُونَةٌ (دِي كَيْفِيَّةٌ
 لَفْظٌ هَا جِن)

هَجْنٌ (ك) هَجْنَةٌ وَهَجْنَانَةٌ وَهَجْنُونَةٌ:
 كَيْفِيَّةٌ هُونَةٌ - فَرْدَانِيَّةٌ هُونَةٌ - دَوَّهَةٌ هُونَةٌ
 الْكَلَامُ: فَلَظٌ هُونَةٌ -
 هَجْنَةٌ تَهْجِنَانٌ. هَجْنِيٌّ: نَبَانٌ (دِي كَيْفِيَّةٌ لَفْظٌ
 هَجْنِيٌّ) هَجْنٌ الْأَمْرُ: تَهْجِرٌ كَرَانٌ - عَيْبٌ دَارٌ
 نَبَانٌ -

أَهْجَنُ الرَّجُلُ: شَرِيفٌ نَسْلٌ أَوْ نَسْلٌ كَا
 مَالِكٌ هُونَةٌ الْجَارِيَّةُ: بَلُوغٌ سَيِّدٌ
 شَادِيٌّ كَرَانٌ -
 أَهْتَجَنُ الشَّاةُ: حَمَلٌ ظَاهِرٌ هُونَةٌ -
 اسْتَهْجَنُ فَعْلَةٌ: فَتْحٌ كَمَا جَاءَتْ "هَذَا
 مَسَا يُسْتَهْجَنُ ذِكْرُهُ" سَيِّدٌ بَارِكِيٌّ مَنِيٌّ
 سَيِّدٌ جِنٌ كَا ذِكْرٌ كَرَانٌ فَتْحٌ كَمَا جَاءَتْ -

الهِجَانُ: فَا - جَمْعٌ مَقَامٌ جَسَدٌ سَيِّدٌ دَفْعٌ كِي
 مَارَنَةٌ مَنِيٌّ آگٌ نَتٌ - بِيٌّ جَسَدٌ كِي
 شَادِيٌّ بَلُوغٌ سَيِّدٌ هُوَ جَاءَتْ - كُجُورٌ كَا
 دَرِخْتٌ جَوَاطِيهِ هُونَةٌ بِرَبِيَّةٍ بِحُولٌ دَسٌ -
 رَجٌ هَوَاجِنٌ

الهِجَانُ مِنَ كُلِّ شَيْءٍ عَمْدَةٌ وَخَالِصٌ مِنَ
 الْإِبِلِ: سَفِيدٌ لَسَلٌ كَا شَرِيفٌ أَوْ نَتٌ (أَسٌ مَنِيٌّ
 نَدٌ مَوْثٌ جَمْعٌ سَبٌ بَرَابَرِيٌّ) كَمَا جَاءَتْ
 "بَعِيرٌ هَجْنَانٌ وَنَاقَةٌ هَجْنَانٌ وَابِلٌ
 هَجْنَانٌ" أَوْ سَاوَةٌ هَجْنَانِيٌّ هَجْنَانِيٌّ بُولَتِيٌّ
 يَسْرُ رَجُلٌ هَجْنَانٌ: شَرِيفٌ نَسْلٌ مَرْدٌ وَعَلِيٌّ
 هَذَا الْقِيَاسُ امْرَأَةٌ هَجْنَانٌ وَنِسْوَةٌ هَجْنَانِيٌّ
 أَرْضٌ هَجْنَانٌ: سَفِيدٌ مَنِيٌّ وَابِلٌ زَمِينٌ -

الهِجَانَةُ: شَرِيفَةٌ - سَفِيدَةٌ -
 الْهَجْنَةُ: مَعْسٌ مِنَ الْكَلَامِ: عَيْبٌ وَ
 قَبَاحٌ فِي الْعِلْمِ: عِلْمٌ كِي بِرَبَادِيٍّ رَجٌ
 هَجْنٌ -

..... الْهَوَاجِرُ فَلَانًا: سَيِّدٌ بَهَانًا مَا فِي
 الضَّرْعِ: تَهْنٌ سَيِّدٌ أَوْ دَوَّهَةٌ لِيَانًا هَجْمًا
 وَهَجْمَانًا الشَّيْءُ: قَرَارٌ وَكُونٌ بَابَانًا
 الْمَرَضُ: بِيَارِيٌّ كَا زَائِلٌ هُونَةٌ أَوْ سَرِيٌّ پَرَانًا
 فَلَانٌ: جَسَدٌ رَهْبَانٌ أَوْ سَرِيٌّ كَرَانًا - هَجْمَتٌ
 عَيْنَةٌ: آگٌ كَا دَسٌ جَانًا -
 هَجْمَةٌ: بَابِيٌّ كَا لَانًا -

هَجْمَةٌ مَهْجَمَةٌ: بَابِيٌّ دَوَّهَةٌ سَيِّدٌ بَرَابَرِيٌّ
 آتَا -
 أَهْجَمَةٌ عَلَيْهِمْ: بَابِيٌّ كَا لَانًا - أَهْجَمٌ مَا فِي
 الضَّرْعِ: تَهْنٌ سَيِّدٌ أَوْ دَوَّهَةٌ لِيَانًا
 الْإِبِلُ: أَوْ نَسْلٌ كُوَابِرَةٌ كِي طَرَفٌ وَابِلِيٌّ
 لَانًا اللَّهُ الْمَرَضُ: بِيَارِيٌّ كُوَابِرٌ كَرَانًا -
 تَهْجَمًا: بَابِيٌّ دَوَّهَةٌ سَيِّدٌ بَرَابَرِيٌّ آتَا -
 تَهْجَمٌ عَلَى الشَّيْءِ: كَمَا جَاءَتْ بَرَابَرِيٌّ كَرَانًا -
 إِنْهَجَمَ الْبَيْتُ: مَكَانٌ كَا شَكْلَةٌ دَوَّهَةٌ رِيَانٌ
 هُونَةٌ الذَّمْعُ أَوْ الْقَرْقُ: آسِيٌّ بَابِيٌّ بَهَانًا
 - إِنْهَجَمَتِ الْعَيْنُ: آگٌ كَا آسِيٌّ بَهَانًا -
 أَهْجَمٌ مَا فِي الضَّرْعِ: تَهْنٌ سَيِّدٌ أَوْ دَوَّهَةٌ لِيَانًا -

أَهْتَجَمَ الرَّجُلُ: كَزُورٌ هُونَةٌ -
 الْهَجْمُ: مَعْسٌ - بَرَابَرِيٌّ - سَيِّدٌ هَجْمَانٌ
 الْهَجْمُ: بَرَابَرِيٌّ -
 الْهَجْمَةُ هَجْمٌ: كَا مَرَّةٌ مِنَ الشَّيْءِ:
 سَخْتٌ سَرْدِيٌّ مِنَ الصَّيْفِ: سَخْتٌ كَرْمِيٌّ
 مِنَ الْإِبِلِ: جَابِلِيٌّ يَسْرُ أَوْ نَسْلٌ سَيِّدٌ
 لَسَلٌ كَرْمِيٌّ كَا لَسَلٌ - الْهَجْمَةُ: بُولَتِيٌّ بِحُولٌ -
 رَاتٌ كِي ابْتَدَائِيٌّ تَارِكِيٌّ كَمَا جَاءَتْ "جَنَّتُهُ
 بَعْدَ هَجْمَةٍ مِنَ اللَّيْلِ" مَنِيٌّ اسَلٌ كِي پَاسٌ
 رَاتٌ كِي ابْتَدَائِيٌّ تَارِكِيٌّ كِي بَعْدُ آتَا -

الْهَجْمَانُ: قَوْمٌ بِرَبِيَّةٍ جَمْعٌ كَرَانٌ وَاللَّ -
 بِهَادٌ - شِيرٌ -
 الْهَجْمُومُ: جَلْدٌ جَمْعٌ كَرَانٌ وَاللَّ مِنَ
 السَّرِيحِ: تَبِيٌّ هُوَ - سَيِّدٌ أَوْ - كَمَا جَاءَتْ
 "تَحْتَمُّ فَيَانَ الْحَمَامُ هَجْمُومٌ" حَمَامٌ مَنِيٌّ
 دَاخِلٌ هُوَ جَاءَتْ اسَلٌ لَسَلٌ كَرْمِيٌّ سَيِّدٌ أَوْ
 هُوَ -

دینا۔ خدمت کرنا۔ صفت فاعلی ہاج اور
صفت مفعولی تہجُو (..... هَجُوا وَهَجَاءَ)
الخُرُوف: حروف کے بچے کرنا۔

هَجَا يَهْجُو هَجَاءً: پڑھنا۔
هَجَوُ (ك) هَجَاوَةً. اليوم: دن کا سخت
گرم ہونا۔

هَجَى تَهْجِيَةُ الخُرُوف: حروف کے بچے
کرنا..... اللَّفْظَةُ: لفظ کے حروف کا جوڑ ملانا
..... الصَّبِيُّ الكِتَاب: بچے کو کتاب پڑھانا۔
هَاجِنَةٌ مُهَاجَةٌ: ایک دوسرے کی بھجورنا۔
أَهْجَى إهْجَاءً القَوْل: بھجوا پانا۔

تَهْجَى تَهْجِيًا الخُرُوف: حروف کی بچے
کرنا۔

تَهَاجِيًا تَهَاجِيًا وَاهْتَجِيَاءً إهْتِجَاءً: ایک
دوسرے کی بھجورنا۔

الهِجَاء: حروف کا جوڑ۔ خُرُوفُ الهِجَاءِ:
الف سے لے کر یا تک اور ان کا نام
حروف التهجى والتهجية: بھی ہے اور کہا
جاتا ہے "هَذَا عَلَى هِجَاءٍ هَذَا" یہ اس کی
شکل پر ہے "وَهُوَ عَلَى هِجَاءِ فُلَانٍ" وہ
لبائی اور شکل میں فلاں کے اندازہ پر ہے۔

الهِجَاءُ: مینڈک۔
الهِجَاءُ: بہت بھجورنے والا۔ کہا جاتا ہے
"رَجُلٌ هِجَاءٌ" بہت بھجورنے والا مرد۔

الْأَهْجُورَةُ وَالْأَهْجِيَّةُ: بھجور قطعہ یا قصیدہ
سے کی جائے۔ کہا جاتا ہے "بَيْنَهُمْ أَهْجُورَةٌ
أَوْ أَهْجِيَّةٌ يَتَهَاجُونَ بِهَا جِ أَهَاجِيٌّ".

هَجَّ (ن) هَجًا وَهَجْدًا هَجْدًا: عمارت کو
دھماکے سے گرانا۔ کہا جاتا ہے "هَدَّنَهُ
السُّبْيَةَ" مصیبت نے اس کے اعضاء کو
ضعیف بنا دیا۔ "وَهَدَّنِي هَذَا الْأَمْرُ أَوْ
هَدَّرْتُ كَيْبِي" یعنی اس معاملہ نے میری کرتوڑ
دی۔

هَدَّرْتُ (ش) هَدَّرْتُ الرَّجُلَ: بوڑھا ہونا۔
هَدَّرْتُ (ض) هَدَّرْتُ البَعِيرَ: اونٹ کا بڑبڑانا
(..... هَدِيدًا) الحَابِطُ وَنَحْوَهُ: دیوار
وغیرہ کا دھماکے سے گرنا اور کہا جاتا ہے

"هَذَا رَجُلٌ هَدَّكَ مِنْ رَجُلٍ" یہ مرد
تمہارے لئے فلاں مرد سے کافی ہے۔ بعض

لوگ اس قول میں لفظ هَدًّا کو مصدر قرار دیتے
ہیں اس وجہ سے وہ تشبیہ جمع مؤنث وغیرہ
نہیں لاتے اور یہ اکثر کا قول ہے اور بعض
فعل قرار دیتے ہیں اس وجہ سے وہ تشبیہ جمع

مؤنث وغیرہ سب لاتے ہیں۔ کہتے ہیں
"مَرَرْتُ بِرَجُلٍ هَدَّكَ مِنْ رَجُلٍ وَبِامْرَأَةٍ
هَدَّتْكَ مِنْ امْرَأَةٍ وَبِرَجُلَيْنِ هَدَّاكَ
وَبِامْرَأَتَيْنِ هَدَّتَاكَ
وَبِنِسَاءٍ هَدَوْنَكَ" الخ اور کہا جاتا ہے "إِنَّهُ
لَهَدَى الرَّجُلَ" یعنی وہ اچھا آدمی ہے اور یہ
اس وقت بولا جاتا ہے جبکہ قوت اور طاقت
کی تعریف کی جائے اور مطلقاً تعجب کے
موقع پر بھی بولا جاتا ہے اور فُلَانٌ يَهْدُ اس
وقت بولا جاتا ہے جبکہ بہادری اور قوت کی
تعریف کی جائے۔

هَدَّوْهُ وَتَهَدَّدُوْهُ: دھمکانا۔ خوف دلانا۔

تَهَادُّوا تَهَادًّا: ایک دوسرے کے پیچھے آنا۔
إِهْدَ السَّجِلَ أَوْ النَّيْتُ: پہاڑ یا مکان کا
نوٹ پڑنا۔ گرنا۔

إِسْتَهَدَّ: کمزور بھجنا۔
الهِادُّ: فا۔ سمندر کا شور۔

الهِادَّةُ الْهَادُّ: کامؤنث۔ گرج۔ کہا جاتا ہے
"مَا سَمِعْنَا الْفَاعِمَ هَادَّةً" ہم نے اسال
گرج نہیں سنی۔

الهِدُّ: مصل۔ فیاض۔ سخت آواز (.....
والهدى) کمزور مرد۔ ج هَدُونٌ وَهَدُونٌ.
الهدد: سخت آواز۔

الهدية: هد: کا اسم مرۃ۔ دھماکا۔
الهداد: مہربانی۔ نرمی۔ مہلت اور اسی سے
ہے "هَذَا ذِيكَ" اور یہ "حَنَانِيكَ" کے

قبیل سے ہے۔ گویا کہ کہنے والا کہتا ہے
"مَهْلًا بَعْدَ مَهْلٍ" یعنی چھوڑ دو۔ دور رہو۔
علیحدہ ہو جاؤ قوم هَذَا: بزدل لوگ۔
الهداسة: بزدلی۔ گہما جاتا ہے "رَجُلٌ
هَذَاةٌ" بزدل مرد۔

الهدود: نرم زمین۔ دشوار گزار گھائی اکثمت
هدود: شید جس سے ارتنا دشوار ہو۔

الهديد: مصل۔ لہامرد۔ دھماکا۔ آواز کی
گنگناہٹ۔

الهدان: اکھڑ بیوقوف مرد۔
الإهد: بزدلی۔

التهديد: ڈرانا۔ دھمکانا۔ کہا جاتا ہے
"جَاؤُوا مُتَهَادِّينَ وَمُتَسَاتِلِينَ" وہ سب
ایک دوسرے کے پیچھے آئے گویا کہ بعض
بعض کو توڑ رہے تھے۔

هَذَا يَهْدُ هَذَا وَهَذَا: سکون ہونا
(حرکت و آواز وغیرہ میں) هَذَا
بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ کہا جاتا ہے
"تَسَاقَطُوا إِلَى بَلَدٍ كَذَا فَهَذَا وَالْقِيَّةُ" لوگ
فلاں شہر میں پیچھے اور وہاں اقامت کی.....

فُلَانٌ: مرنا اور کہا جاتا ہے "أَتَانَا فُلَانٌ وَقَدْ
هَدَّاتِ الْعَيْنَ وَالرَّجُلَ" یعنی فلاں ہمارے
پاس اس وقت آیا جبکہ سارے لوگ سوچتے
تھے (اور کبھی هَذَا الف سے بدل کر بھی
بولتے ہیں) هَذَا الصَّبِيُّ بچے کو سلانے کے
لئے تھکی دینا۔

هَدَيْ يَهْدِي هَذَا: کبڑا ہونا..... البعير:
کثرت بوجھ کی وجہ سے چھوٹے کو بان والا
ہونا۔

هَذَاةٌ تَهْدِيَةٌ: تسکین دینا۔ چپ کرنا۔
أَهْدَاهُ إِهْدَاءً: تسکین دینا۔ چپ کرنا۔ أَهْدَا
الصَّبِيَّ: بچے کو سلانے کے لئے تھکی دینا.....

الثوب: بوسیدہ کرنا..... الكبر أو الضرب
فُلَانًا: کبڑا کر دینا۔ جھکا دینا..... اللئيم
مَنْكِبُهُ: مؤنث سے کو پست کر دینا۔ عرب کہتے
ہیں "لَا أَهْدَاهُ اللَّهُ" یعنی اللہ اس کے رنج و
غم کو دور نہ کرے۔

الهدء والهدء: رات کا ابتدائی حصہ۔ کہا
جاتا ہے "أَتَانَا بَعْدَ هَدِيٍّ مِنَ اللَّيْلِ" وہ
ہمارے پاس ایک حصہ رات گزرنے کے
بعد یا لوگوں کے سونے کے بعد يَا الْهَدَاءُ:
سیرت وخصلت۔ (لغت ہے هَدِيٌّ بِالنِّبَاءِ

میں)

الْهَيْدَةُ هَذَا: كَأَسْمَرَة..... مِنْ اللَّيْلِ: رات کا ابتدائی حصہ۔

الْهَيْدَةُ هَذَا: كَأَسْمَرَة: کہا جاتا ہے "مثالہ ہڈی لیلہ" اس کے پاس رات کا گزارہ نہیں۔

الْهَيْدَةُ: ایک قسم کی دوڑ۔

الْهَيْدَةُ: وَبِلَاغَهُ (نرہی کے لئے خاص ہے)

الْهَيْدَةُ: مَص..... مِنْ اللَّيْلِ: رات کا ابتدائی حصہ کہا جاتا ہے "أَنَا فُلَانٌ هَيْدُوًا" فلاں ہمارے پاس سونے کے بعد آیا۔

الْهَيْدَةُ مِنَ اللَّيْلِ: رات کا ابتدائی حصہ۔ الْآهْدَاءُ: کبیرا کہا جاتا ہے "مَنْ كَبُرَ الْآهْدَاءُ" جھکا ہوا کندھا "وَرَجُلٌ آهْدَاءٌ وَأَمْرَلَةٌ آهْدَاءٌ" کبیرا مرد کبیرا عورت "وَهُوَ آهْدَاءٌ مِمَّا كَانَ" زیادہ مطمئن۔

الْمُهَيْدَةُ مِنَ اللَّيْلِ: رات کا ابتدائی حصہ۔ الْمُهَيْدَةُ: حالت کہا جاتا ہے "فَوَكَفَّهُ عَلَى مُهَيْدِيَةٍ" میں نے اس کو سابق حالت پر چھوڑ دیا اور یہ مُهَيْدَةُ قَلْبِي تَصْغِيرٌ ہے۔

هَذَبَ (ض) هَذَبًا الشَّيْءَ: كَأَنَّ النَّاقَةَ: اُدْمِي كَوَدْوَحَنَا..... الشَّمْرَةَ: پھیل توڑنا۔

هَذَبْتِ (س) هَذَبًا الْعَيْنَ: آكْ كَمَا لَمْ يَكُنْ يَكُونُ وَالِي هَوْنًا..... الشَّجْرَةَ: درخت کا لمبی شاخوں والا ہونا۔

هَذَبَ الثَّوْبَ: کپڑے میں چھور بنا ہڈب وَاخْتَذَبَ الشَّمْرَةَ: میوہ توڑنا۔

أَهْذَبَتِ الشَّجْرَةَ: درخت کا لمبی شاخوں والا ہونا۔

تَهَذَّبَتِ الْأَعْضَانُ: ثَمْبِيُوں کا لگانا تہذیب الشَّحَابِ: لنگے بونے بادل والا ہونا۔

الْهَيْدُوبُ وَالْهَيْدُوبُ: پک واحد هَيْدُوبَةٌ وَهَيْدُوبَةٌ: کپڑے کا چھورج اَهْدَابٌ وَاحِدٌ هَيْدُوبَةٌ.

الْهَيْدُوبُ: ارٹھی اور اس کے مانند رختوں کی ثَمْبِيَاں درخت کے پتے جو ہمیشہ رہیں جیسے

سرو..... مِنْ النَّبَاتِ: گھاس جس کے پتے نہ ہوں اور وہ خود پتوں کے قائم مقام ہو اور بقول بعض ہر پتے جن میں چوڑائی نہ ہو۔

هَذَبَ الشَّجْرَةَ: ثَمْبِيُوں کی لمبائی اور ان کا لگانا ج اَهْدَابُ.

الْهَيْدُوبُ: شير..... مِنْ الْعُيُونِ وَالْأَشْجَارِ: لمبی پلکوں والی آنکھ لمبی شاخوں والا درخت۔

الْهَيْدُوبُ: كَنْدُ خَاطِرٍ وَعَاجِزٌ.

الْهَيْدُوبُ: كَنْدُ خَاطِرٍ وَعَاجِزٌ: پتے جو چوڑے نہ ہوں واحد هَيْدَابَةٌ کہا جاتا ہے "قَطَعَ هَذَبَ الشَّجْرَةَ وَهَذَبَتْهَا" اس نے درخت کی لمبی شاخیں کاٹیں "هُذَابٌ السُّخْلُ" درخت خراکی شاخیں هَذَابُ الثَّوْبِ: کپڑے کے چھور۔

الْهَيْدُوبُ مِنَ الشَّحَابِ: زمین کے قریب لٹکا ہوا بادل۔ الْهَيْدُوبُ مِنَ الرَّجَالِ: كَنْدُ خَاطِرٍ وَعَاجِزٌ۔ بہت بالوں والا الْهَيْدُوبُ: پستان۔

الْهَيْدُوبِيُّ: گھوڑوں کی ایک چال۔

الْأَهْدَابُ: لمبی اور گھٹی پلکوں والا۔ مَوْنَتٌ هَذَبَاءٌ: هَذَبٌ. شَجْرٌ أَهْدَبٌ: لنگی ہوئی شاخوں والا درخت۔ نَسْرٌ أَهْدَبٌ: لمبے پروں والا گلدہ۔ عَيْنٌ هَذَبَاءٌ: لمبی پلکوں والی آنکھ۔ شَجْرَةٌ هَذَبَاءٌ: لمبی اور لنگی ہوئی شاخوں والا درخت اَذُنٌ هَذَبَاءٌ: لنگے ہوئے کان۔ لِحْيَةٌ هَذَبَاءٌ: لنگی ہوئی داڑھی۔

هَذَجَ (ض) هَذَجًا وَهَذَجَانًا وَهَذَجَانًا: بوڑھوں کی چال چلنا..... الظِّلْمُ: شرمش کا کا پتے ہوئے چلنا۔

هَذَجَتِ النَّاقَةُ: اُدْمِي کا بڑے اور بلند کو بان اپنے پیچ پر شیش ہونا..... الْقَيْدُورُ: ہانڈی کا زور سے اُبلنا..... الرَّيْحُ: ہوا کا سانیں سانیں کرنا۔

هَذَجَتِ النَّاقَةُ: اُدْمِي کا بڑے اور بلند کو بان والی ہونا۔

تَهَذَّجَ الصَّوْتُ: کچھ کی وجہ سے آواز منقطع

ہونا۔ تَهَذَّجَتِ النَّاقَةُ: اُدْمِي کا بچے سے پیار کرنا۔ تَهَذَّجَ الْقَوْمُ عَلَى فُلَانٍ: مہربانیاں ظاہر کرنا۔

إِسْتَهْذَجَ: کا پتے ہوئے چلنا۔

الْهَيْدَاجُ: اسم مبالغہ۔ بوڑھوں کی چال چلنے والا۔ ظَلَيْمٌ هَيْدَاجٌ: کا پتے ہوئے چلنے والا شرمش اور اسی سے ہے "قَتَايَفُ هَذَا جُونٌ حَوْلَ يَوْمِيهِمْ" سببیاں ان کے مکان کے ارد گرد کا پتے ہوئے چلتی ہیں۔

قَدْرٌ هَذُوَجٌ: جلدی اُلٹنے والی ہانڈی۔

الْهَيْدُوجُ: ہودہ ج ہُوَادِجٌ.

الْبِهْذَاجُ: بچے سے پیار کرنے والی اُدْمِي۔ سَائِسٌ سَائِسٌ كَرْنَةُ وَالِي هَوَا۔

المُسْتَهْذِجُ: قا۔ جلد باز۔

المُسْتَهْذِجُ: مَتَعٌ۔ جلد بازی (مصدر تَمَيُّعٌ) الْهَيْدُوجُ: بوڑھوں کی چال چلنے والا شرمش۔

هَذَرٌ (ن ض) هَذَرًا وَهَذَرًا. الدَّمُ وَغَيْرُهُ: خون وغیرہ رائیگاں جانا..... فُلَانٌ السَّدَمُ وَغَيْرُهُ: باطل کرنا۔

هَذَرٌ (ض) هَذَرًا وَتَهَذَرًا الْحَمَامُ: کبوتر کا کوکو کرنا۔ تَهْكَرِي کرنا..... السَّرَابُ: جوش میں آنا۔ هَذَرَتْ شِرْطَةُ النَّبِيَّةِ: نبیہ کا منکے میں جوش میں آنا..... السَّرْعُذُ: بادل میں گر جانا..... السُّخْلُ: شگوفے لگانا..... هَذَرًا وَهَذِيرًا الْعَيْسُ: اونٹ کا بڑ بڑانا..... هَذُوْرًا وَهَذِيْرًا الْعَشْبُ: بہت بڑھنا اور لمبی ہونا۔

هَذَرٌ الْعَيْسُ: اونٹ کا بڑ بڑانا۔

أَهْذَرُ دَمٌ فُلَانٌ: باطل کرنا۔ مباح کرنا۔

تَهَذَّرَ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کے خون کو مباح کرنا۔

أَهْذُوْرُ النَّظَرُ: زور سے بارش ہونا۔

الْقَادِرُ: قا۔ ناکارہ ہڈ ذوقہ: دودھ جس کا ادھر کا حصہ گاڑھا ہو اور نیچے کا پتلا۔

الْقَادِرَةُ: الْقَادِرُ: کا مَوْنَتٌ۔ اَرْضٌ هَادِرَةٌ: بہت گھاس والی زمین ج ہُوَادِرٌ.

الهُذَارُ: اسم مبالغہ۔ کہا جاتا ہے "رَعْدٌ هَذَا" بہت گرجنے والا بادل۔

الهُذْرُ وَالهُذِرُ: موص۔ ناکارہ ورائیگاں کہا جاتا ہے "ذَهَبَ ذُمَّهُ هَذْرًا او هَذْرًا" اس کا خون رائیگاں گیا۔ "ذَهَبَ صَالَهُ او سَعِيَهُ هَذْرًا او هَذْرًا" اس کا مال یا اس کی کوشش رائیگاں گئی۔

الهُذْرُ: ناکارہ لوگ۔ کہا جاتا ہے "هُمْ اُنَاسٌ هَذْرٌ" وہ ناکارہ لوگ ہیں۔

الهُذْرُ: گمانا ناکارہ ہندو کہا جاتا ہے "يَتَوَلَّانِ هَذْرَةً وُهَذْرَةً وَهَذْرَةٌ فَلَانِ كِي اولاءِ تمہی اور ناکارہ ہے اور ایسا ہی واحد کے لئے اور مؤنث کے لئے۔ کہا جاتا ہے "هُوَ جَبَانٌ هَذْرَةٌ"۔

الاهُذِرُ: چھوٹا ہوا۔ مؤنث "اهُذِرَاءُ جِ هُذِرٌ"۔

المنهُذِرَةُ: سامنے کے چھوٹے دانے۔ الْهِيَادِرُيسُ: مسیبتیں۔

هَذِيضٌ هَذِيضٌ الْكَلْبُ: کتے کا بھڑکانا جانا۔ اِنْهَذِضْ اِنْهَذَاشَا الْكَلْبُ: کتے کا بھڑکانا۔ الْهَيُوْدُوعُ: شتر مرغ۔

هَذَعَهُ (ر) هَذَعًا: توڑنا۔ اِنْهَذَعُ: ٹوٹنا۔ الشُّيُ: خشک ہونے کے بعد نرم ہونا۔ الرُّطْبَةُ: گر کر چھٹنا۔

هَذَفَ (ن) هَذَفًا: اِثْبَتَهُ: داخل ہونا۔ لِلْخَمْسِينَ: قریب پینچنا۔

هَذَفَ (ض) هَذَفًا: ست ہونا۔ كَمْزُورٌ هَوَا: کمزور ہونا۔ كَسْمَدٌ هَوَا: اِلْسِي الشُّيُ: جلدی کرنا۔

أَخَذَفَ لِلْخَمْسِينَ: قریب پینچنا۔ عَلِي الشُّيُ: نبلہ پر سے جھانکنا۔ اَلْيَسَّ: پناہ لینا۔ لَهَ الشُّيُ: پیش آنا۔ مِثْنُ: قریب ہونا۔ کہا جاتا ہے "أَخَذَفَ لَكَ الصَّيْدُ فَاصْرَبْ" شکار تمہارا قریب ہے اس پر تیر مارو۔

اِسْتَهَذَفَ لَهُ الشُّيُ: سیدھا کھڑا ہونا۔ الشُّيُ: بلند ہونا۔ نَشَانَةٌ هَذَا اور اسی سے مشہور

مقولہ ہے "مَنْ صَفَّ فَقَدْ اسْتَهَذَفَ" جس نے کوئی کتاب تصنیف کی وہ نشانہ بن گیا۔ اِسْتَهَذَفَ كَفَلُ الْاِنْسَانِ او الْخِيَوَانِ: انسان یا حیوان کے چوڑے کا بڑا ہونا۔

الهُادِفُ: فاجھی۔ الْهَادِفَةُ: جماعت۔ الْهَذَفُ: بڑے جسم والا۔

الهِذَفُ: ہر ایک بلند (عمارت یا ٹیلہ یا پہاڑ اور اسی وجہ سے نشانہ کو بھی "هَذَفٌ" کہتے ہیں الْهَذَفُ: بڑے جسم کا مرد بہت سونے والا بھاری بھری "بھر کم" ناکارہ ناموافق جِ أَخَذَفَ:

الهِذْفَةُ: لوگوں کی جماعت۔ مکانات کر جن میں لوگ کچھ اقامت کریں اور پھر کوچ کریں جِ هَذَفَ:

هَذَكَ (ض) هَذَكًا الْبِنَاءُ: عمارت کو ڈھانا۔ تَهَذَكَ تَهَذُّكَ: بیوقوف بننا۔ عَلَيهِ بِالْكَلَامِ: دھمکانا۔

هَذَلُ (ض) هَذِلًا الْحَمَامُ او الْغُلَامُ: آواز نکالنا۔ هَذَاهُمُ الشُّيُ: لگانا۔

هَذِلُ (س) هَذَلًا: ڈھیلنا ہونا۔ اَلْبَعْجِيُّرُ: زخم کی وجہ سے ڈھیلے ہونٹ والا ہونا۔

تَهَذَلْتُ الشُّفَّةَ: ہونٹ کا ڈھیلنا ہونا۔ اَعْضَانُ الشَّجَرَةِ او ثَمَرُهَا: درخت کی ٹہنیوں یا پھل کا لگانا۔ اَلْقَوْبُ: کپڑے کا لگانا۔

الهُادِلُ: فاجھی۔ هَادِلٌ: لگنے ہوئے ہونٹ والا اونٹ۔ الْهَذَالُ: لگی ہوئی شامیں۔

الْهَيْدَالُ: وہ طفیلی تیل جو دوسرے درختوں کی شاخوں پر چڑھ کر ان کا رس چوستی ہے۔ ان میں سے کچھ سفید پھلوں والی ہوتی ہیں موسم سرما میں بادام اور سیب پر چڑھی ہوتی ہوتی ہیں اور کچھ سرخ پھلوں والی زیتون کے درخت پر ہوتی ہیں۔

الهِذَالَةُ: جماعت۔ جَمَلٌ هَذَلٌ: لگنے ہوئے ہونٹ والا۔ الْهَيْدِيلُ: موص۔ کبوتر کی ٹوکھ کا بچہ بہت بالوں والا مرد اور بقول بعض گتھے ہوئے بالوں والا جو کبھی نہ کرے اور تیل نہ لگائے۔ رَجُلٌ هَيْدِيلٌ: ست و بوجھل مرد۔ الْاَهْذَلُ: لگنے ہوئے ہونٹ والا۔ مَوْنِثٌ هَذَاهُ. جِ هَذَاهُ: مَشْفَرٌ اَهْذَلٌ: ڈھیلا ہونٹ کا اونٹ۔ شَفَّةٌ هَذَاهُ: ٹھوڑی پر لوٹنا ہوا ہونٹ الْاَهْذَلُ مِنْ الشَّحَابِ: زمین کے قریب لٹکا ہوا بادل۔

هَذَمَ (ض) هَذْمًا الْبِنَاءُ: عمارت ڈھانا۔ اَلشُّوْبُ: کپڑے میں بیوند لگانا اور کہا جاتا ہے "ضَرَبَتْهُ هَذْمَةً" اس نے اُس کو مارا اور پینچے توڑ دی۔

هَذِمَ الرَّجُلُ فِي الْبَحْرِ: سمندر میں چکر آتا۔ هَذَمَ الْبِنَاءُ: عمارت ڈھانا (تشدید مبالغہ کے لئے ہے)۔ اَلشُّوْبُ: کپڑے میں بیوند لگانا۔

تَهَذَمَ الْبِنَاءُ: عمارت کا آہستہ آہستہ گرنا۔ کہا جاتا ہے "تَهَذَمَ عَلَيْهِ غَضْبًا" اس نے اسے دھمکی دی۔ اَلشُّوْبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔

تَهَذَمُوا: ایک دوسرے کے خون کو مباح کرنا۔ اِنْهَذَمَ الْبِنَاءُ: عمارت کا ویران و ٹھٹھا ہونا۔ الْهَادِمُ: فاجھی۔ اَللِّدَاتُ: کنایہ ہے موت سے۔ الْهَذَامُ: چکر جو انسان کو سمندر میں لاحق ہو۔ الْهَذْمُ: موص۔ مباح کئے ہوئے خون۔ کہا جاتا ہے "ذُمَّهُ هَذْمٌ" اس کا خون مباح ہے۔

الهِذْمُ: بوسیدہ یا بیوند لگا ہوا کپڑا۔ جِ أَخَذَمَ وَهَذَمَ: کہا جاتا ہے "عَلَيْهِ قِيَابُ هَذْمٍ او أَخَذَمَ" وہ بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے ہے۔ الْهَذْمُ: بیوقوفوت کھوسٹ بڑھنا۔ پراانا۔

جَمَلٌ هَذَلٌ: لمبے اور لگنے ہوئے ہونٹ والا اونٹ۔ الْهَيْدِيلُ: موص۔ کبوتر کی ٹوکھ کا بچہ بہت بالوں والا مرد اور بقول بعض گتھے ہوئے بالوں والا جو کبھی نہ کرے اور تیل نہ لگائے۔ رَجُلٌ هَيْدِيلٌ: ست و بوجھل مرد۔ الْاَهْذَلُ: لگنے ہوئے ہونٹ والا۔ مَوْنِثٌ هَذَاهُ. جِ هَذَاهُ: مَشْفَرٌ اَهْذَلٌ: ڈھیلا ہونٹ کا اونٹ۔ شَفَّةٌ هَذَاهُ: ٹھوڑی پر لوٹنا ہوا ہونٹ الْاَهْذَلُ مِنْ الشَّحَابِ: زمین کے قریب لٹکا ہوا بادل۔

هَذَمَ (ض) هَذْمًا الْبِنَاءُ: عمارت ڈھانا۔ اَلشُّوْبُ: کپڑے میں بیوند لگانا اور کہا جاتا ہے "ضَرَبَتْهُ هَذْمَةً" اس نے اُس کو مارا اور پینچے توڑ دی۔

هَذِمَ الرَّجُلُ فِي الْبَحْرِ: سمندر میں چکر آتا۔ هَذَمَ الْبِنَاءُ: عمارت ڈھانا (تشدید مبالغہ کے لئے ہے)۔ اَلشُّوْبُ: کپڑے میں بیوند لگانا۔

تَهَذَمَ الْبِنَاءُ: عمارت کا آہستہ آہستہ گرنا۔ کہا جاتا ہے "تَهَذَمَ عَلَيْهِ غَضْبًا" اس نے اسے دھمکی دی۔ اَلشُّوْبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔

تَهَذَمُوا: ایک دوسرے کے خون کو مباح کرنا۔ اِنْهَذَمَ الْبِنَاءُ: عمارت کا ویران و ٹھٹھا ہونا۔ الْهَادِمُ: فاجھی۔ اَللِّدَاتُ: کنایہ ہے موت سے۔ الْهَذَامُ: چکر جو انسان کو سمندر میں لاحق ہو۔

الْهَذْمُ: موص۔ مباح کئے ہوئے خون۔ کہا جاتا ہے "ذُمَّهُ هَذْمٌ" اس کا خون مباح ہے۔

الهِذْمُ: بوسیدہ یا بیوند لگا ہوا کپڑا۔ جِ أَخَذَمَ وَهَذَمَ: کہا جاتا ہے "عَلَيْهِ قِيَابُ هَذْمٍ او أَخَذَمَ" وہ بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے ہے۔

الْهَذْمُ: بیوقوفوت کھوسٹ بڑھنا۔ پراانا۔

جَمَلٌ هَذَلٌ: لمبے اور لگنے ہوئے ہونٹ والا اونٹ۔ الْهَيْدِيلُ: موص۔ کبوتر کی ٹوکھ کا بچہ بہت بالوں والا مرد اور بقول بعض گتھے ہوئے بالوں والا جو کبھی نہ کرے اور تیل نہ لگائے۔ رَجُلٌ هَيْدِيلٌ: ست و بوجھل مرد۔ الْاَهْذَلُ: لگنے ہوئے ہونٹ والا۔ مَوْنِثٌ هَذَاهُ. جِ هَذَاهُ: مَشْفَرٌ اَهْذَلٌ: ڈھیلا ہونٹ کا اونٹ۔ شَفَّةٌ هَذَاهُ: ٹھوڑی پر لوٹنا ہوا ہونٹ الْاَهْذَلُ مِنْ الشَّحَابِ: زمین کے قریب لٹکا ہوا بادل۔

هَذَمَ (ض) هَذْمًا الْبِنَاءُ: عمارت ڈھانا۔ اَلشُّوْبُ: کپڑے میں بیوند لگانا اور کہا جاتا ہے "ضَرَبَتْهُ هَذْمَةً" اس نے اُس کو مارا اور پینچے توڑ دی۔

هَذِمَ الرَّجُلُ فِي الْبَحْرِ: سمندر میں چکر آتا۔ هَذَمَ الْبِنَاءُ: عمارت ڈھانا (تشدید مبالغہ کے لئے ہے)۔ اَلشُّوْبُ: کپڑے میں بیوند لگانا۔

تَهَذَمَ الْبِنَاءُ: عمارت کا آہستہ آہستہ گرنا۔ کہا جاتا ہے "تَهَذَمَ عَلَيْهِ غَضْبًا" اس نے اسے دھمکی دی۔ اَلشُّوْبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔

تَهَذَمُوا: ایک دوسرے کے خون کو مباح کرنا۔ اِنْهَذَمَ الْبِنَاءُ: عمارت کا ویران و ٹھٹھا ہونا۔ الْهَادِمُ: فاجھی۔ اَللِّدَاتُ: کنایہ ہے موت سے۔ الْهَذَامُ: چکر جو انسان کو سمندر میں لاحق ہو۔

الْهَذْمُ: موص۔ مباح کئے ہوئے خون۔ کہا جاتا ہے "ذُمَّهُ هَذْمٌ" اس کا خون مباح ہے۔

الهِذْمُ: بوسیدہ یا بیوند لگا ہوا کپڑا۔ جِ أَخَذَمَ وَهَذَمَ: کہا جاتا ہے "عَلَيْهِ قِيَابُ هَذْمٍ او أَخَذَمَ" وہ بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے ہے۔ الْهَذْمُ: بیوقوفوت کھوسٹ بڑھنا۔ پراانا۔

چری موزہ۔

الہڈم: منخت۔ بیوقوف۔

الہڈم: خون مباح۔ کہا جاتا ہے "ذمۃ ہڈم"

اس کا خون مباح ہے۔ کنوئیں کے کناروں

سے شکست ہو کر جو کنوئیں میں ہی گر پڑے۔

ہر وہ عمارت جو دوران و شکست ہو گئی ہو۔ کہا

جاتا ہے "إِنَّ حَفْرَكَ أَلَىٰ لِهَڈْمٍ وَإِنَّ

حَبْلَكَ أَلَىٰ لَانْشَوَطَةٍ" یہ اس وقت بولا

کرتے تھے جبکہ یہ کہنا مقصود ہو کہ تمہاری مدد

بہت کم ہے نیز عرب معاہدہ اور نصرت کے

وقت کہا کرتے تھے "ذمۃ ذمک و ہڈمی

ہڈمک" یعنی اگر کوئی مجھے قتل کرے تو تم

میرے خون کا مطالبہ کرو جیسے تم اپنے اولیاء

کے خون کا مطالبہ کرتے ہو اور اگر کسی نے

میرنی عزت بگاڑی پر تو اس نے تمہاری

عزت پر بے لگایا اور کہا جاتا ہے "الانقض

ہڈم من الحناط" دیوار منہدم ہوگی۔

شہید الہڈم: وہ شخص جو کنوئیں میں گر

جائے یا اس کے اوپر دیوار گر پڑے۔

الہڈمۃ: اسم مرۃ۔ بلی بارش۔

الہڈمۃ: پرانا کپڑا۔ ج ہڈوم۔

الہڈیم: پہلے سال کی باقی ماندہ گھاس۔

عجوز منہڈمۃ: بہت بڑھیا۔

المہڈم اولمہڈوم والمہڈومۃ: گاڑھا

اور جما ہوا دودھ۔ ارض منہڈومۃ: زمین

جس پر بلی بارش ہوئی ہو۔

خف منہڈم: بوسیدہ پوند لگا ہوا چری موزہ۔

ہڈم الہڈم: کپڑے پھاڑنا۔

الہڈمیل: پرانا کپڑا۔ درینہ۔ بہت بالوں

والا۔

الہڈمیل: پرانا کپڑا۔ جمع شدہ بلند پشہ۔

الہڈمۃ: بہت درختوں والا ریگستان۔ زمانہ

قدیم۔ لوگوں کی جماعت۔

ہڈن (ض) ہڈوننا: آرام پانا۔ بزدل ہونا

..... ڈھیلا ہونا (..... ہڈنا) آرام دینا۔

جمونے وعدہ سے راضی کرنا..... الصبی:

خوش کرنا۔

الشی: دین کرنا..... فلانا: قتل کرنا۔

ہڈن عنک فلان: کسی کا تم سے تھوڑی سی

چیز پا کر راضی ہونا۔

ہڈنۃ: تسکین دینا۔ باز رکھنا۔ کہا جاتا ہے

"ہڈنؤہ بالقول حتی ہڈن" اس کو انہوں

نے قول سے راضی کیا یہاں تک کہ وہ راضی

ہو گیا..... الصبی: خوش کرنا۔ کہا جاتا ہے

"ہڈنت المرأة صبیہا بگلانہا لینام"

عورت نے اپنے بچے کو سونے کے لئے

لوری دی۔

آہڈن الخیل: دہلا کرنا۔ گھوڑے کو چھیرا

بنانا۔

ہڈانۃ مہڈانۃ: صلح کرنا۔

تہڈان الامر: درست ہونا..... القوم: باہم

صلح کرنا۔

انہڈن الرجل عن عزمہ: ست ہونا۔

الہڈان: اکٹھ۔ بے وقوف۔ جنگ میں

ست۔ ج ہڈون۔

الہڈانۃ: لڑائی کے بعد صلح۔

الہڈن: سرسبزی۔ فراخی۔ ارزانی۔

الہڈن: ڈھیلا۔

الہڈنۃ ہڈن: کا اسم مرۃ۔ تھوڑی بلی

بارش۔

الہڈنۃ: مصالحت۔ آرام۔ سکون۔ ج

ہڈن۔

الہڈون: سکون۔ صلح۔

المہڈون: منع۔ بہت سونے والا جو نہ صبح

کی نماز پڑھے اور نہ اپنی ضروریات کے

لئے جائے۔ کندز بن جو صرف باتوں سے

راضی ہو جائے۔

المہڈنۃ: سکون۔ آرام۔

الہڈان: بزدل۔ بخیل۔

ہڈہڈ ہڈنۃ البعیر: اونٹ کا بڑبڑانا

..... الطائر: پرندہ کا گنگری کرنا۔ ہڈہڈت

الصبی ائۃ: بچے کو سونے کے لئے ہلانا

ہڈہڈ الشی من غلؤ الی اسفل: اتارنا۔

کہا جاتا ہے "یہڈہڈ الی کذا" مجھے ایسا

خیال ہوتا ہے۔

الہڈہڈ: جنات کی آوازیں (اس کے لئے

واحد نہیں)

الہڈہڈ والہڈہڈ والہڈہڈ ہڈہڈ:

واحد ہڈہڈہڈ و ہڈہڈہڈ و ہڈہڈہڈ ج

ہڈہڈ و ہڈہڈہڈ "أَبْصُرُ مِنْ هُڈُہُڈ"

کہتے ہیں اس وجہ سے کہ عرب کا خیال تھا کہ

یہ پانی کو زمین کے نیچے سے دیکھ لیتا ہے۔

الہڈہڈ: ہر کو کو کرنے والا پرندہ۔ بہت کو کو

کرنے والا کیوٹر۔ ج ہڈہڈ و ہڈہڈہڈ۔

الہڈہڈۃ: مص۔ کیوٹر کی کو کو کی آواز۔

الہڈہڈ: نرمی۔ تم کہتے ہو "عنیک

بالہڈہڈۃ" اپنے اوپر نرمی کو لازم کرو۔

ہڈہڈ یہڈیہ ہڈی و ہڈی و ہڈیۃ و ہڈانۃ:

رہنمائی کرنا۔ کہا جاتا ہے "ہڈہڈ الطریق

و ہڈہڈ الی الطریق وللطریق" اس نے

اس سے راستہ بیان کر دیا اور پتہ چواد یا ہڈہڈ

اللہ الی الایمان او لیلایمان: ہدایت کرنا

ہڈی الرجل: ہدایت پانا۔

ہڈی یہڈی ہڈہڈ العروس الی بغلہا:

دلہن کو شوہر کے پاس بھیجنا..... فلانا: آگے

ہونا "جاءت الخیل یہڈیہا فرس"

أشقر" گھوڑوں کا گلہ آجانے کے آگے

ایک نیک لال رنگ کا گھوڑا تھا۔

ہڈی یہڈیہ الشی: جدا جدا کرنا۔

الہڈیۃ لفلان والیہ: تخر دینا..... العروس

الی بغلہا: دلہن کو شوہر کے پاس بھیجنا۔

ہڈاڈہڈ مہڈاڈہڈ و ہڈاڈ: ہر ایک کا دوسرے کو

تخر دینا۔ ہڈی فلان فلانا: اپنا اپنا کھانا

کرنا ساتھ کھانا..... فلانا: چلانا اور کہا جاتا

ہے "جاء فلان یہڈیہ یین التین" فلاں دو

آدمیوں کے درمیان سہارا لیتا ہوا آیا۔

آہڈی اہڈاڈ العروس الی بغلہا: دلہن کو

شوہر کے پاس بھیجنا..... الہڈی الی

الحرم: ہدی کا جانور حرم میں بھیجنا

..... لفلان والی فلان کذا: تعظیم و احوال

کے لئے تخر بھیجنا..... الشی: جدا جدا کرنا۔

تَهْدِي تَهْدِيًا: ہدایت پانا۔
تَهَادِي تَهَادِيًا الْقَوْمُ: بعض کا بعض کو ہدیہ
دینا..... السُّجْلُ: لڑکھڑاتے ہوئے تہا چلنا
اور کہا جاتا ہے "جَاءَ تَهَادِي بَيْنَ الْفَتِي" وہ
دو آدمیوں کے درمیان سہارا لیتا ہوا آیا۔
"وَهَذَا الشَّيْءُ يَتَهَادِي" یعنی وہ چیز ہے جس
کو لوگ آپس میں تھمہ کے طور پر دیتے ہیں۔
إِهْتَدَى الْهَيْدَاءُ: ہدایت پانا۔ راہ راست
پانا۔ کہا جاتا ہے "إِهْتَدَى إِلَى الطَّرِيقِ
وَإِهْتَدَى الطَّرِيقُ إِلَى مَكَانٍ كَذَا" یعنی
اس نے فلاں جگہ کا راہ راست پالیا۔
إِهْتَدَى الْعَرُوسُ إِلَى بَغْلِيهَا: دلہن کو شوہر
کے پاس بھیجنا۔
الْفَرَسُ الْخَيْلُ: گھوڑوں کو گلے کے آگے
ہوتا..... إِهْتَدَى السُّجْلُ: ہدایت طلب
کرنا۔ ہدایت پر قائم رہنا۔
اسْتَهْدَى اسْتَهْدَاءً: ہدایت طلب کرنا.....
الشَّيْءُ: ہدیہ طلب کرنا۔

جَانُورُ جَوْحَرٍ مِثْلُ بَيْجَا جَائِے۔ واحد هَذِيَّةٌ اور
کہا جاتا ہے "مَالِي هَذِي إِنْ كَانَ كَذَا
وَكَذَا" یہ مقولہ بطور قسم کے ہے "وَجَنَّةٌ بَعْدَ
هَذِي مِنَ اللَّيْلِ" میں اس کے پاس رات
کے ایک حصہ گزرنے کے بعد آیا۔
الْهَذِيَّةُ وَالْهَذِيَّةُ: طریقہ۔ سیرۃ۔ کہا جاتا
ہے "مَا أَحْسَنَ هَذِيَّتَهُ وَهَذِيَّتَهُ" اس کی
سیرت کس قدر اچھی ہے۔ رَجَ هَذِي.
الْهَذِيَّةُ هَذِي: کا اسم نون اور کہا جاتا ہے
"حَذَّ فِي هَذِيَّتِكَ" جس کام میں تم مشغول
تھے اسی میں لگے رہو اور اس سے تجاوز مت
کرو۔ "وَضَلَّ هَذِيَّتَهُ" یعنی اس طریقہ کو
چھوڑ دیا جس کو کرنا چاہتا تھا۔
هَذِيَّةُ الْأَمْرِ: بے گلیت الہیاء: جہت کار۔ کہا
جاتا ہے "نَظَرْنَا هَذِيَّةَ أَمْرِهِ" فلاں نے
اپنے طریقہ کار پر غور کیا۔
الْهَذُوُّ: رہنما۔ کہا جاتا ہے "زَجُلٌ هَذُوُّ"
یعنی راہنما مرد۔

الْهَادِي: اسم فاعل رَجَ هَادُونَ
وَهَادَاةٌ. الْهَادِي: آگے رہنے والا۔
گردن۔ پیکان۔ لاشی۔ شیرج الْهَوَادِي.
هَوَادِي اللَّيْلِ: رات کا ابتدائی حصہ۔
هَوَادِي الْإِبِلِ: اونٹوں میں سے پہلا اونٹ
جو نمودار ہو۔
الْهَادِيَّةُ الْهَادِي: کامونٹ۔ لاشی۔ پانی
میں اوپر کو نکل ہوئی چٹان۔ گردن۔ رَجَ
هَادِيَاتٍ وَهَوَادٍ: کہا جاتا ہے "أَقْبَلْتُ
هَادِيَاتِ الْخَيْلِ وَهَوَادِيهَا".
رَجُلٌ هَذَاءٌ: کمزور کندز بہن مرد۔
الْهَادِيَّةُ: مص۔ رہنمائی۔
الْهَذِي: رہنمائی۔ بیان۔ دلالت (مذکرو
مونث) کہا جاتا ہے "هُوَ عَلَى الْهَذِي" وہ
ہدایت پر ہے۔ دن۔
الْهَذِي: مص۔ طریقہ۔ سیرت۔ کہا جاتا
ہے "مَا أَحْسَنَ هَذِيَّتَهُ" اس کی سیرت کس
قدر اچھی ہے۔ "وَهَذِي هَذِيَّةً" وہ اس کی
سیرت پر چلا۔ الْهَذِي: محترم۔ قربانی کا

سَيِّفٌ هَذَاءٌ وَهَذَاءٌ: تلوار قاطع۔
الْهَذَاءُ: کدال۔ پھاؤڑہ۔
هَذَا: ایک کلمہ ہے جو مرکب ہے ہائے سمبہ
اور ذال اسم اشارہ ہے۔
هَذَبٌ (ض) هَذَبًا الشَّجَرُ وَغَيْرُهُ: شاخ
تراشی کرنا۔ پاکیزہ کرنا۔ درست کرنا.....
السُّخْلَةُ: درخت خرما کی چھال اتارنا.....
الشَّيْءُ: رہنما..... هَذَبًا وَهَذَابَةً: جلدی کرنا
..... الْقَوْمُ: بہت شور و غل کرنا۔
هَذَبٌ: جلدی کرنا..... الشَّجَرُ وَغَيْرُهُ:
شاخ تراشی کرنا۔ پاکیزہ کرنا۔ درست کرنا
(تشدید کثرت کے لئے ہے)..... الشَّيْءُ:
درست کرنا۔ اصلاح کرنا..... السُّجْلُ:
پاکیزہ اخلاق والا بنانا۔
هَذَبٌ مَهَادِبَةٌ: جلدی کرنا۔
أَهَذَبْتُ السُّخَابَةَ مَاءً:
ہا: جلدی برسانا۔
تَهَذَّبُ: پاکیزہ ہونا۔ درست ہونا۔
الرُّجْلُ: شاستہ ہونا۔

الْهَذِيَّةُ الْهَذِي: کامونٹ۔ دلہن۔ تخرج
هَذَا يَا وَهَذَا يَا وَهَذَا يَا.
الْهَذِيَّةُ: ہنشل۔ کہا جاتا ہے "لَكَ عِنْدِي
هَذِيَّاهَا" تمہارے لئے میرے پاس اس
کے مثل ہے۔
الْمَهَادَاةُ: صلح کرنا۔
السُّهْدَاءُ: وہ جس کی عادت ہدیہ دینے کی
ہو۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ مَهْدَاءٌ وَإِسْرَاءَةٌ
مَهْدَاءَةٌ".
الْبَهْدِي: تھالی بلتق وغیرہ جس میں ہدیہ بھیجا
جائے۔
الْمَهْدِي: مفتح۔ وہ شخص جس کی اللہ تعالیٰ حق
کی طرف رہنمائی کریں۔
السُّهْدَاةُ وَالْمَهْدِيَّةُ: دلہن جو شوہر کے پاس
بھیجی گئی ہو۔

الْهَادِي: اسم فاعل رَجَ هَادُونَ
وَهَادَاةٌ. الْهَادِي: آگے رہنے والا۔
گردن۔ پیکان۔ لاشی۔ شیرج الْهَوَادِي.
هَوَادِي اللَّيْلِ: رات کا ابتدائی حصہ۔
هَوَادِي الْإِبِلِ: اونٹوں میں سے پہلا اونٹ
جو نمودار ہو۔
الْهَادِيَّةُ الْهَادِي: کامونٹ۔ لاشی۔ پانی
میں اوپر کو نکل ہوئی چٹان۔ گردن۔ رَجَ
هَادِيَاتٍ وَهَوَادٍ: کہا جاتا ہے "أَقْبَلْتُ
هَادِيَاتِ الْخَيْلِ وَهَوَادِيهَا".
رَجُلٌ هَذَاءٌ: کمزور کندز بہن مرد۔
الْهَادِيَّةُ: مص۔ رہنمائی۔
الْهَذِي: رہنمائی۔ بیان۔ دلالت (مذکرو
مونث) کہا جاتا ہے "هُوَ عَلَى الْهَذِي" وہ
ہدایت پر ہے۔ دن۔
الْهَذِي: مص۔ طریقہ۔ سیرت۔ کہا جاتا
ہے "مَا أَحْسَنَ هَذِيَّتَهُ" اس کی سیرت کس
قدر اچھی ہے۔ "وَهَذِي هَذِيَّةً" وہ اس کی
سیرت پر چلا۔ الْهَذِي: محترم۔ قربانی کا

سَيِّفٌ هَذَاءٌ وَهَذَاءٌ: تلوار قاطع۔
الْهَذَاءُ: کدال۔ پھاؤڑہ۔
هَذَا: ایک کلمہ ہے جو مرکب ہے ہائے سمبہ
اور ذال اسم اشارہ ہے۔
هَذَبٌ (ض) هَذَبًا الشَّجَرُ وَغَيْرُهُ: شاخ
تراشی کرنا۔ پاکیزہ کرنا۔ درست کرنا.....
السُّخْلَةُ: درخت خرما کی چھال اتارنا.....
الشَّيْءُ: رہنما..... هَذَبًا وَهَذَابَةً: جلدی کرنا
..... الْقَوْمُ: بہت شور و غل کرنا۔
هَذَبٌ: جلدی کرنا..... الشَّجَرُ وَغَيْرُهُ:
شاخ تراشی کرنا۔ پاکیزہ کرنا۔ درست کرنا
(تشدید کثرت کے لئے ہے)..... الشَّيْءُ:
درست کرنا۔ اصلاح کرنا..... السُّجْلُ:
پاکیزہ اخلاق والا بنانا۔
هَذَبٌ مَهَادِبَةٌ: جلدی کرنا۔
أَهَذَبْتُ السُّخَابَةَ مَاءً:
ہا: جلدی برسانا۔
تَهَذَّبُ: پاکیزہ ہونا۔ درست ہونا۔
الرُّجْلُ: شاستہ ہونا۔

الْهَادِي: اسم فاعل رَجَ هَادُونَ
وَهَادَاةٌ. الْهَادِي: آگے رہنے والا۔
گردن۔ پیکان۔ لاشی۔ شیرج الْهَوَادِي.
هَوَادِي اللَّيْلِ: رات کا ابتدائی حصہ۔
هَوَادِي الْإِبِلِ: اونٹوں میں سے پہلا اونٹ
جو نمودار ہو۔
الْهَادِيَّةُ الْهَادِي: کامونٹ۔ لاشی۔ پانی
میں اوپر کو نکل ہوئی چٹان۔ گردن۔ رَجَ
هَادِيَاتٍ وَهَوَادٍ: کہا جاتا ہے "أَقْبَلْتُ
هَادِيَاتِ الْخَيْلِ وَهَوَادِيهَا".
رَجُلٌ هَذَاءٌ: کمزور کندز بہن مرد۔
الْهَادِيَّةُ: مص۔ رہنمائی۔
الْهَذِي: رہنمائی۔ بیان۔ دلالت (مذکرو
مونث) کہا جاتا ہے "هُوَ عَلَى الْهَذِي" وہ
ہدایت پر ہے۔ دن۔
الْهَذِي: مص۔ طریقہ۔ سیرت۔ کہا جاتا
ہے "مَا أَحْسَنَ هَذِيَّتَهُ" اس کی سیرت کس
قدر اچھی ہے۔ "وَهَذِي هَذِيَّةً" وہ اس کی
سیرت پر چلا۔ الْهَذِي: محترم۔ قربانی کا

سَيِّفٌ هَذَاءٌ وَهَذَاءٌ: تلوار قاطع۔
الْهَذَاءُ: کدال۔ پھاؤڑہ۔
هَذَا: ایک کلمہ ہے جو مرکب ہے ہائے سمبہ
اور ذال اسم اشارہ ہے۔
هَذَبٌ (ض) هَذَبًا الشَّجَرُ وَغَيْرُهُ: شاخ
تراشی کرنا۔ پاکیزہ کرنا۔ درست کرنا.....
السُّخْلَةُ: درخت خرما کی چھال اتارنا.....
الشَّيْءُ: رہنما..... هَذَبًا وَهَذَابَةً: جلدی کرنا
..... الْقَوْمُ: بہت شور و غل کرنا۔
هَذَبٌ: جلدی کرنا..... الشَّجَرُ وَغَيْرُهُ:
شاخ تراشی کرنا۔ پاکیزہ کرنا۔ درست کرنا
(تشدید کثرت کے لئے ہے)..... الشَّيْءُ:
درست کرنا۔ اصلاح کرنا..... السُّجْلُ:
پاکیزہ اخلاق والا بنانا۔
هَذَبٌ مَهَادِبَةٌ: جلدی کرنا۔
أَهَذَبْتُ السُّخَابَةَ مَاءً:
ہا: جلدی برسانا۔
تَهَذَّبُ: پاکیزہ ہونا۔ درست ہونا۔
الرُّجْلُ: شاستہ ہونا۔

الھذّب: صفائی۔ خلوص۔

فُرسٌ ھذّبٌ: تیز رفتار گھوڑا۔

ابِلٌ مہاذبٌ: تیز روانہ۔ مفرد مہذاب۔

المہذّب: مطہ۔ پاکیزہ اخلاق والا۔ عیوب

سے پاک صاف۔ کلام مہذّب اور شیعر

مہذّب: عیوب سے پاک کلام یا شعر۔

فُرسٌ او طابِرٌ مہذّبٌ: تیز رفتار گھوڑا یا

پرندہ۔

ھذّر (ن ض) ھذّرًا وتھذّرًا الرّجلُ فی

کلامیہ: بکواس کرنا..... ھذّرًا: التیوم

دن کا سخت گرم ہونا۔

ھذیر (س) ھذّرًا کلامہ: لغو و بیہودہ ہونا۔

أھذّر فی منطقیہ و فی کلامیہ: بکواس کرنا۔

یومٌ ھاذِرٌ: سخت گرم دن۔

الھذیر: بکواس و بیہودہ گفتگو۔

رُجُلٌ ھذیرٌ و ھذّرٌ و ھذرةٌ و ھذرةٌ و ھذّرًا

و ھذیرٌ و ھذیرةٌ و ھذیرانٌ و مہذّرٌ

و مہذّرانٌ و مہذّرانۃٌ: بکواس کرنے والا۔

بیہودہ کہنے والا۔ و رُجُلٌ ھذیرانٌ: جلدی

بولنے والا۔ خدمت میں چست۔ امراسۃ

ھذیرۃٌ و ھذیرۃٌ و مہذّرانٌ: بکواس کرنے والی

عورت۔

ھذرب: جلدی جلدی بہت بولنا۔

المہذّران: جلدی بولنے والا۔ خدمت میں

چست۔

الھذیربی: عادت۔

ھذرف: جلدی کرنا۔ تیز چلنا۔

الھذروف: تیز رفتار جھڈاریف۔

ھذرم ھذرمۃ: بہت بولنا۔ پڑھنے اور

بولنے میں جلدی کرنا..... الرّجُلُ فی

کلامیہ: بڑ بڑی کرنا۔

الھذرمۃ: مہم۔ تیز رفتاری۔

الھذرام: بہت بولنے والا۔ کہا جاتا ہے

"رُجُلٌ ھذّرامٌ" بہت بولنے والا مرد۔

الھذّارم و الھذّارمۃ: پڑھنے بولنے میں

جلدی کرنے والا۔ کہا جاتا ہے امراسۃ

ھذرمی: بہت شور۔ اوشرارۃ والی

عورت۔

ھذّف (ض) ھذّوفاً: تیز چلنا۔

رُجُلٌ ھذّافٌ و مہذّفٌ و ھذّفٌ: تیز رفتار

مرد۔

ھذّل (ض) ھذّلاً: تیز چلنا۔ کہا جاتا ہے

"أھذّب فی منشیہ و أھذّل" وہ تیز دوڑا۔

الھاذل: رات کا درمیانی حصہ۔

الھذّلول: ہلکا ہلکا مرد۔ ہلکا تیر۔ چست

بھیڑ یا۔ لہا اور سخت بدن کا گھوڑا۔ چھوٹا ٹیلہ

پانی کی چھوٹی نالی۔ ریت کے ذرات۔

آفت۔ ابتدائی رات یا بقیہ شب۔ باریک

بادل۔ بارش جو دور سے دکھائی دے۔ ج

ھذال۔

ھوڈل ھوڈلۃ فی منشیہ: تیز چلنا۔ دوڑنے

میں لڑکھانا..... بسولہ: پیشاب کرنا۔

پیشاب او پر کو کرنا۔

الھوڈل: بندر کا بچہ۔

الھذلبۃ: جلد بازی۔ ہلکا پن۔

الھذلوغ: موٹے ہونٹ والا۔

الھذلوغۃ: بد صورت۔ بیوقوف۔

ھذلم: چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے

تیزی سے چلنا۔

ھذم (ض) ھذمنا الشئی: جلدی سے کاٹنا

..... الرّجُلُ جلدی سے کھانا۔ صفت ھاذم۔

الھذام: بہادر۔ تلوار کا طبع۔ سنان ھذام:

تیز بھالا۔

سجین ھذوم: تیز چمچری۔

شفرۃ ھذمۃ و ھذامۃ: تیز دھار۔

المہذّم من الشیوف: شمشیر براں۔

ھذمل: چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہوئے

تیزی سے چلنا۔

الھذھا ذو الھذھاھذ من الشیوف: بہت

کاٹنے والی تلوار۔ تیز رفتار۔ قُربٌ ھذھاڈ:

پانی کے لئے رات میں دشوار سفر۔

الھذھاھذ: وہ لوگ جو ہر ایک کو اپنا یا اپنا خادم

بتلائیں۔

ھذھاہ ھذوۃ ھذّرًا بالشیف: کاٹنا ھذا فی

الکلام: مرض وغیرہ کی وجہ سے غیر معقول
باتیں کرنا۔ بکواس کرنا۔

ھذی ھذی ھذیا و ھذیاناً: مرض وغیرہ کی
وجہ سے غیر معقول باتیں کرنا۔ بکواس کرنا۔

صفت ھاذاور اسم الھذاء۔

أھذی إھذاء اللّحم: گوشت کو اچھی طرح

سے گلا کر پکانا۔

ھاذاہ مہذاة: باہم بکواس کرنا۔ کہا جاتا ہے

"فعدّ ھذاذی أضحابہ" وہ بیٹھا اور اپنے

ساتھیوں کے ساتھ باہم بکواس کرتا رہا۔

تھاذی تھاذیا القوم: گفتگو میں بکواس کرنا۔

رُجُلٌ ھذّاءٌ و ھذّاءۃٌ: بہت بکواس کرنے

والا مرد۔

ھرّ (ن ض) ھرّاً و ھریراً الشئی: ناپسند

کرنا۔ کہا جاتا ہے "فلان ھرّۃ الناس"

فلان کو لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ ھرّی وجہ

السائل: تیوری چڑھانا۔ منہ بگاڑنا۔ ھرّت

القوس: کمان سے آواز نکالنا..... ھرّام

الشوک: کانٹے کا خشک پراگندہ ہونا.....

بسلیحہ: پانچا نہ کرنا..... السدّاء سلحۃ:

پیٹ چلانا۔

ھرّ (ض) ھریراً الکلب: کتے کا سردی کی

وجہ سے بھونکنا (بناج سے کم)..... البرد

الکلب: بھونکانا..... ھرّ الکلب الضیف:

کتے کا مہمان پر بھونکنا۔

ھرّث ھرّاً و ھرّاراً الابل: ہرار کی بیماری

میں مبتلا ہونا..... سلحۃ: پیٹ چلنا یہاں

تک کمر جانا۔

ھرّ (س) ھرّاً: بدخلق ہونا۔

ھاڑہ مھاڑۃ: کسی کے سامنے تیوری چڑھانا۔

منہ بگاڑنا۔

أھرّ الکلب: بھونکانا اور اسی سے مثال سے

"شّرّ أھرّذ اناب" (بڑے شر نے کتے کو

بھونکایا) أھرّ بالغم: بکریوں کو پانی پر

بلا نا۔ یا گھاس پر لے جانا۔

الھاڑ: فنا۔ کتا جبکہ اپنے دانت نکالے۔

الھرّار: اونٹ کے گوشت اور کھال کے

درمیان ورم کے مانند ایک مرض۔ اونٹ کا اسہال۔

الہیڑ: بمص۔ اونٹ کے ڈانٹ کی ایک قسم۔
الہیڑ: بلاج ہوزة مؤنث ہرزة ج ہزر اور بقول بعض ہوز کا اطلاق مذکر مؤنث دونوں کیلئے ہے اور ہرزة: صرف مؤنث کے لئے اور ہرزة کی تصغیر ہرزیرة اور اسی سے ہے ابوہريرة۔

الہیڑ: اونٹ کے ہانکنے یا پانی پر بلانے کی آواز۔ کراہت۔ ناپسندیدگی اور امثال عرب میں سے ہے "لا یعرف ہوزاً من ہوز" وہ دوست دشمن میں تیز نہیں کرتا یا وہ ملی اور چوبے میں تیز نہیں کرتا۔

الہیڑ: شیر۔ بہت دودھ اور پانی۔
الہیڑ: اسم مبالغہ۔ دانت نکلنے والا کتا۔ کہا جاتا ہے "هلک من لا ہرزا لہ" ہلاک ہو گیا جس کے پاس ہر نہیں تھا جس سے دشمن کو بھگاتا۔

الہیڑ: ان: نسر واقع اور قلب عقب دو ستاروں کے نام۔ ماہ دبیر و جنوری۔
الہیڑ: زمین پر بکھرے ہوئے انگوٹھ کے دانے۔

الہیڑ: بمص۔ کتے کی آواز (نہاج سے کم) کہا جاتا ہے "اذنہ غریزہ و اقبل ہرزیرة" اس کی خوش خلقی جاتی رہی اور بد خلقی آگئی۔ اس شخص کے لئے بولا کرتے ہیں جو بڑھا اور بد خلق ہو جائے۔ کہا جاتا ہے "أجد فی وجهہ ہرزة و ہرزیرة" میں اس کے چہرے میں نفرت کے آثار محسوس کرتا ہوں۔

الہیڑ: مرض ہراریں جتا اونٹ۔
ہرزا: ہرزا ہرزا فی منطقہ: بہت نش گوئی کرنا۔ بہت نشی کرنا..... ہرزا او ہرزا (۴) البرذ فلانا: ہلاک کرنے والی سخت سردی پڑنا۔ ہرزاب الریح: ہوا کا سخت سرد ہونا..... اللخم: گوشت کو بہت پکانا۔

ہری (س) ہرزا او ہرزا او ہرزا اللخم: گوشت کو بہت پکا ہوا ہونا۔

ہرنت الموابی: مویں کا سردی یا گرمی سے ہلاک ہونا۔ صفت مہرزة ف۔

ہرزا: تہرزة اللحم: گوشت گلا ہوا پکانا..... البرذ الماشیة: بد حال کر دینا۔
أهراً إهراً البرذ: ہلاک کرنے والی سخت سردی پڑنا..... اللخم: گوشت گلا ہوا پکانا..... فلان فلانا: قتل کرنا..... الکلام و فی الکلام: بہت بولنا اور بے ہودہ بولنا۔

تہرزا اللحم: گوشت گلا ہوا پکانا تہرزاب الماشیة: مویں کا سردی کی وجہ سے بد حال ہونا۔ کہا جاتا ہے "ہرزا البرذ الماشیة فتنہرأت" جانور پر سخت سردی پڑی جس سے وہ بد حال ہو گیا۔

الہرزا: بے ہودہ وغیر موہب کلام (.....) والہرزا: بہت اور بی ہودہ کہنے والا۔ امسرة ہرزاۃ و ہرزاۃ: بہت اور بی ہودہ کہنے والی عورت۔
الہرزا: درخت خرما کا پودا۔

الہری: بہت پکا ہوا گوشت جو بڑی سے علیحدہ ہو جائے۔
الہریئة: مؤنث الہری: سخت سردی کا وقت کہا جاتا ہے "ہذہ قرۃ لہا ہریئة" یہ ایسی ٹھنڈک ہے کہ جس میں لوگوں کو اور جانوروں کو تکلیف پہنچتی ہے اور مر جاتے ہیں۔

المہرزا: مہش۔ پکا ہوا گوشت۔
ہررب (ن) ہررنا و ہررنا و مہررنا و ہررنا: بھاننا..... فی منطیہ: تیز چلنا..... فی الارض: ڈور تک جانا..... فی الاضر: مبالغہ کرنا۔

ہررب (س) ہررنا الریح: بوزھا ہونا۔
ہررنا: بھگانا۔
أهزب الریح: گھبرا کر یا بغیر گھبرائے ہوئے بھگانے کی کوشش کرنا۔ ڈور تک جانا۔..... فلان فلانا: بھگانے پر مجبور کرنا۔
أهزب الریح: ہوا کا شمار اڑانا۔
تہازبوا: باہم مل کر بھگانا۔

الہارب: فا۔ کہا جاتا ہے "فאלہ ہارب ولا قارب" نہ اس سے کوئی بھگائے والا ہے نہ قریب جانے والا یعنی وہ نا کارہ ہے۔
المہزب: بمص۔ بھگانے کی جگہ کہا جاتا ہے "فلان لنا مہزب" یعنی فلاں شخص ایسا ہے جس کے پاس تختیوں میں ہم بھاگ کر جاتے ہیں۔
ہرربج ہرربجۃ الاضر: بڑے طریقہ سے کرنا۔
الہرربۃ: بندوؤں کے بڑے بڑے لوگ بقول بعض بندوؤں کے پندت آتش پرستوں کی آگ کا خادم۔ واحد ہرربۃ۔
الہرربۃ: دنگی سے آہستہ چال۔
الہرربۃ: چست و چالاک چور ہلاک بھینکا بھیر یا ج ہرربۃ۔
ہررنا (نض) ہررنا بالرربح: نیزہ مارنا۔
ہررت اللحم: گوشت گلا کر پکانا.....
الشبوب: کپڑا بھاننا..... عرض فلان: آبروریزی کرنا۔
ہررت (س) ہررنا الشی: کشادہ ہونا۔ کہا جاتا ہے "ہررت شدقہ" اس نے اپنی باجھیں کھولیں۔
أهزت اللحم: گوشت گلا کر پکانا۔
الہررت و الہررات و الہرروت و الہرریت: شیر۔
الہرریت: کشادہ۔ کشادہ باجھوں والا۔ راز کو نہ چھپانے والا۔ بی ہودہ کہنے والا۔
الآہررت: کشادہ باجھوں والا۔ کہا جاتا ہے "أسد آہررت و أسود ہررت"۔
المشہاربت: بہت بکواس کرنے والا۔
المشہررت: مہش شیر۔ کلابت مہررنة الأشدق: چوڑی باجھوں والے کتے۔ کہا جاتا ہے "ہو مہرروت الضم" وہ چوڑی باجھوں والا ہے۔ ج مہاربت۔
أسد منہررت الشدق: چوڑی باجھوں والا شیر۔
الہررت: پرانا کپڑا۔

<p>فَلَانٌ هَرَامَةٌ: فلاں کی اولاد کے لئے عزت و قہر ہے جس سے وہ اپنے دشمنوں کو تباہ کرتے ہیں۔</p>	<p>پھاڑنا۔ هَرَدَ اللَّحْمُ: گوشت کو گلا کر پکانا..... الشَّيْءُ: قادر ہونا..... عِرْضَةٌ: بے آبروئی کرنا..... الشَّيْءُ: خراب کرنے کیلئے پھاڑ ڈالنا۔</p>	<p>الهَرْتَمُ والهَرَاتِمُ: شیر۔ الهَرْتَمَةُ: کتے کے تھنوں کے درمیان کی سیاہی۔ شیر۔</p>
<p>الهَرَسُ: بہت توڑنے والا اور بہت کھانے والا شیر۔ الهَرَسُ: مہس۔ بلی۔</p>	<p>هَرَدَ (س) هَرَدَا اللَّحْمُ: گوشت کا گل کر پکانا۔</p>	<p>هَرَجَ (ض) هَرَجَا النَّاسُ: فتنہ و فساد میں پڑنا..... السَّبَابُ: دروازہ کھلا ہوا چھوڑنا..... السَّفَرَسُ: گھوڑے کا تیز دوڑنا..... فِئْسِي الْحَدِيثِ: بے جوڑ اور بہت باتیں کرنا۔</p>
<p>الهَرَسُ: بلی۔ پرانا کپڑا۔ بہت توڑنے والا اور بہت کھانے والا شیر۔ مَسْكَانُ هَرَسٍ: ہر اس درخت اُگانے والی جگہ۔ مَوْنَتُ هَرَسَةٍ:</p>	<p>هَرَدٌ: زرد رنگا ہوا کپڑا پہننا..... اللَّحْمُ: گوشت کو گلا کر پکانا۔ کہا جاتا ہے ”هَرَادَا الشَّيْءُ يَهْرِيذُهُ هَرَادَةً“ بمعنی اَزَادُ يَهْرِيذُ اِرْزَاقَهُ: ہمزہ کو ہا سے بدل دیا گیا ہے جیسے اِرْزَاقٌ وَهَرَاقٌ مِثْلُ هَرَادَةٍ: مہس۔ فتنہ و فساد۔</p>	<p>هَرَجَ بِالسَّبْعِ: ڈانٹنا۔ ڈراننا..... الشَّيْذُ فَلَانًا: مست کر دینا۔ عوام کہتے ہیں۔ ”هَرَجَ فِي الْحَدِيثِ“ اس نے شئی کی باتیں کیں۔ تَهَارَجَ الْقَوْمُ: ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔ اِنْتَهَرَاجَ فَلَانٌ مِنَ النَّبِيذِ: مست ہونا۔ اِسْتَهْرَجَ لَهُ الرَّأْيُ: رائے کا قوی اور ہمہ گیر ہونا۔</p>
<p>الْأَهْرَسُ: سخت گرا بنا۔ بہت توڑنے والا اور بہت کھانے والا شیر۔</p>	<p>الهَرْدُ: مہس۔ فتنہ و فساد۔</p>	<p>تَهَارَجَ الْقَوْمُ: ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔ اِنْتَهَرَاجَ فَلَانٌ مِنَ النَّبِيذِ: مست ہونا۔ اِسْتَهْرَجَ لَهُ الرَّأْيُ: رائے کا قوی اور ہمہ گیر ہونا۔</p>
<p>الهَرَسُ: اسم مبالغہ۔ بہت توڑنے والا اور بہت کھانے والا شیر ہر یسہ بنانے والا ہر یسہ بیچنے والا۔</p>	<p>الهَرْدُ: زرد کر کم۔ سرخ منٹی ہلدی۔</p>	<p>الهَرَجُ: مہس۔ فتنہ و فساد۔ آشوب۔</p>
<p>الهَرَسُ: باریک کوٹا ہوا..... والهَرِيْسَةُ: ایک قسم کا کھانا جو گوشت اور کوٹے ہوئے گیسوں کو ملا کر تیار کیا جاتا ہے۔</p>	<p>الهَرْدِيُّ وَالْهَرْدَاءُ: ایک قسم کی گھاس۔</p>	<p>الهَرَجُ: بیوقوف۔ ہر چیز سے کمزور۔</p>
<p>رَجُلٌ مَهْرَسٌ: بہت کھانے والا۔</p>	<p>رَجُلٌ أَهْرَدُ الشَّدَقِ: پوزی یا چھوں والا مرد۔</p>	<p>الهَرَجَةُ: ہر ج۔ کا اسم نوع۔ نرم کمان ج ہر ج۔</p>
<p>السَّهْرَسُ: ہاون۔ السَّهْرَسُ: پتھر کا ہاون۔ اوحلی۔ بہت کھانے والا اونٹ۔ بھاری جسم کا اونٹ۔ مرد جو رات میں چلنے سے نڈرے۔ رَجٌّ مَهْرَسٌ:</p>	<p>المَهْرُودُ: ہرد۔ سے رنگا ہوا زرد کپڑا۔</p>	<p>الهَرَجُ: اسم مبالغہ۔ فَهْرَسٌ هَرَاجٌ: بہت دوڑنے والا گھوڑا۔</p>
<p>هَرَشٌ (ض) هَرَشَا الدَّهْرُ: زمانہ کا سخت ہونا۔</p>	<p>هَرْدَبٌ هَرْدَبَةٌ: ست دوڑنا۔</p>	<p>الهَرَاجَةُ: ہر آج۔ کاموٹ۔ بے جوڑ اور بہت باتیں کرنے والی جماعت۔</p>
<p>هَرَشٌ (س) هَرَشًا: بدخلق ہونا۔</p>	<p>هَرْدَبَةٌ: بڑھیا۔ بزدل۔ بڑے پیٹ والا۔</p>	<p>فَهْرَسٌ مَهْرَجٌ وَمَهْرَجٌ: بہت دوڑنے والا گھوڑا۔</p>
<p>هَرَشٌ يَبْنِي الْكِلَابَ: کتوں کے درمیان بھڑکانا..... يَبْنِي النَّاسَ: لوگوں میں فساد ڈالنا۔</p>	<p>هَرْدَبَةٌ: بڑھیا۔ بزدل۔ بڑے پیٹ والا۔</p>	<p>الهَرَجَةُ: اسم مبالغہ۔ فَهْرَسٌ هَرَاجٌ: بہت دوڑنے والا گھوڑا۔</p>
<p>هَارَشٌ مَهَارَشَةٌ وَهَرَاشًا بَعْضُ الْكِلَابِ عَلَيَّ بَعْضُهَا: بعض کو بعض پر بھڑکانا..... فَلَانٌ فَلَانًا: ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔ ایک دوسرے سے جھگڑنا۔</p>	<p>هَرْدَبَةٌ: بڑھیا۔ بزدل۔ بڑے پیٹ والا۔</p>	<p>الهَرَجَةُ: اسم مبالغہ۔ فَهْرَسٌ هَرَاجٌ: بہت دوڑنے والا گھوڑا۔</p>
<p>تَهَارَشَتْ وَاهْتَرَسَتْ الْكِلَابُ: ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔ تَهَرَشَ الْغَيْمُ: بادل کھل جانا۔ الْهَرَاشُ: هَارَشٌ: کا مصدر جھگڑنا۔ مقاتلہ۔</p>	<p>هَرْدَبَةٌ: بڑھیا۔ بزدل۔ بڑے پیٹ والا۔</p>	<p>الهَرَجَةُ: اسم مبالغہ۔ فَهْرَسٌ هَرَاجٌ: بہت دوڑنے والا گھوڑا۔</p>

الْهَرَشُ: سخت عادت والا۔ اکھر۔

الْمَهَارِشُ: فا۔ کہا جاتا ہے "فَرَسٌ مَهَارِشٌ الْعُنَانُ" یعنی لگام والا گھوڑا۔

الْمَهْرُ شَيْبَةٌ: بہت بڑھیا۔

هَرَشْتٌ وَهَرَشْتٌ: الْهَرَشَةُ: دوات کے صوف کا سوکھ جانا۔

الْمَهْرُ شَفٌّ مِنَ الرَّجَالِ: دہلا بوزھا۔ بہت پینے والا۔ بہت بڑھیا۔

الْمَهْرُ شَيْبَةٌ: بہت بڑھیا۔ بوزھی اونٹنی۔ دوات کا خشک شدہ صوف۔

هَرِصٌ (س) هَرَصًا: خشک خارش والا ہونا۔

هَرَصَ الرَّجُلُ: خشک خارش کی وجہ سے بدن کا سمجھک اٹھنا۔

الْمَهْرَصُ: مہس۔ کیزرا۔ خشک خارش۔

الْمَهْرِيصَةُ: پانی تھج ہونے کی جگہ۔

هَرِضٌ (ن) هَرِضًا الْتَوْبُ: کیزرا پھاڑنا۔ هَرِضٌ (س) هَرِضًا: خشک خارش والا ہونا۔

هَرِضَ الرَّجُلُ: خشک خارش کی وجہ سے بدن کا سمجھک اٹھنا۔

هَرِطٌ (ن) هَرِطًا عَرِضٌ فَلَانٌ وَفِي عَرِضِهِ: آبروریزی کرنا..... فِي الْكَلَامِ: غیر مربوط اور بیہودہ کہنا۔

هَرِطٌ (س) هَرِطًا: بیماری وغیرہ کی وجہ سے ڈھیلے گوشت والا ہونا۔

الْمَهْرُ طَقَّةٌ: عیسائیوں کے نزدیک دین میں بدعت اس کی نسبت۔ ہرطونی۔

تَهَارِطًا: ایک دوسرے کو گالی دینا۔

الْمَهْرُ طٌ: مہس (..... وَالْمَهْرُ طٌ) بہت دہلا گوشت۔ متبول مرد۔ دہلی بوزھی بھیڑ۔ ناقہ

هَرِطٌ: عمر رسیدہ اونٹنی۔ رَجْ هَرِطًا وَهَرِطًا الْهِيْرُ طَةٌ: دہلی بوزھی بھیڑ۔ بیوقوف۔

بزول۔ کمزور جھڑپ

الْمَهْرُ طٌ: نرم۔ الْمَهْرُ طَالٌ: لمبے قد والا۔

الْمَهْرُ طَمَانٌ: ایک قسم کا ٹھنڈا۔

هَرِعٌ (ف) هَرِعًا إِلَيْهِ: اضطراب کے

ساتھ جلدی کرنا۔

هَرِعٌ (س) هَرِعًا الدَّمُ: خون کا جلدی بہنا۔

الرَّجُلُ: تیز رفتار یا جلدی رونے والا ہونا۔ هَرِعَ الْقَوْمُ الرِّمَاحَ: قوم کا نیزہ سیدھا کر کے چلنا۔

هَرِعٌ وَهَرِعَ الرَّجُلُ: چلنے میں جلدی کرنا۔ اَهْرِعَ الرَّجُلُ: جلدی کرنا..... الْقَوْمُ رِمَاخَهُمْ: نیزہ سیدھا کر کے چلنا۔

اَهْرِعَ الرَّجُلُ: خفیف اٹھل ہونا۔ غصہ یا کمزوری یا خوف یا سردی سے کانپنا۔ جلدی دوڑا یا جانا۔ صفت مُهْرِعٌ اور کہا جاتا ہے "أَقْبَلَ الشَّيْخُ يَهْرِعُ" بڑھا مضطرب ہو کر دوڑنے لگا۔

تَهْرَعَتِ الرِّمَاحُ: نیزوں کا سیدھا ہونا۔ تَهْرَعُ إِلَيْهِ: جلدی کرنا۔ اِهْتَرَعُ الْعُوْدُ: لکڑی توڑنا۔

أَسْتَهْرَعَتِ الْإِبِلُ: حوض کی طرف دوڑنا۔ الْهَزَاعُ: اضطراب کے ساتھ تیز رفتار چلنا۔ تیز ہانکنا۔

الْمَهْرَعُ: مہس۔ اضطراب کی چال۔ تیز ہانکنا۔

الْمَهْرِعُ: جلدی بینے والا خون۔ رَجُلٌ هَرِعٌ: جلدی رونے والا۔ تیز رفتار۔ مَوْنَتْ هَرِعَةٌ:

الْمَهْرِعَةُ وَالْمَهْرِعَةُ: جوں کے مانند ایک کیزرا۔ یا چھوٹی جوں اور بقول بعض بڑی جوں۔

الْمَهْرِيْعَةُ: باریک ٹہنیوں والا درخت۔ الْمَهْرُوعُ وَالْمَهْرُوعُ: شیر۔ الْمَهْرُوعُ: پاگل۔ سخت و مشقت سے درماندہ۔

الْمَهْرُوعُ: مفع۔ لالچی۔ الْمَهْرِيْعُ: بزدل ہے وقوف جلد باز۔ چست عورت رِيْحٌ هَرِيْعٌ وَهِيْرُوعَةٌ: تیز چلنے والی ہوا جوئی اڑائے۔

الْمَهْرِيْعَةُ: چرواہے کی بانسری اور اس کو

بیراعہ بھی کہتے ہیں۔

الْمَهْرُ اعْلَةٌ: کہنے لوگ۔

هَرَفٌ (ض) هَرَفًا بِفُلَانٍ كَسَى بِرْتَجِبٍ كَرْتِي هَوَيْ مَدْحٌ مِثْلُ مَبَالِغٍ كَرْنَا: بغیر جانے بوجھے مدح کرنا اور اسی سے ہے "لَا تَهْرَفْ بِمَا لَا تَعْرِفُ" جس کو تم جانتے نہیں اس کی مدح مت کرو۔ هَرَفْتُهُ الرِّيْحُ: ہوا کا اڑا دینا۔ وَهَرَفَ السَّبْعُ: درندے کا لگا تار آواز نکالنا۔

هَرَفَتْ تَهْرِيْفًا النَّخْلَةُ: جلدی پھل دار ہونا۔

هَرَفَتِ النَّخْلَةُ: جلدی پھل دار ہونا۔

هَرَفَتِ النَّخْلَةُ: جلدی پھل دار ہونا۔

هَرَفَتِ النَّخْلَةُ: جلدی پھل دار ہونا۔

أَهْرَفَتِ النَّخْلَةُ: جلدی پھل دار ہونا۔

أَهْرَفَ الرَّجُلُ: مال نامی کا مالک ہونا۔ هَرَقٌ (ف) هَرَقًا وَأَهْرَقَ السَّمَاءَ: پانی گرانا۔

هَرَقَ السَّمَاءَ: پانی گرانا (تشدید کثرت کے لئے ہے) اور کہا جاتا ہے (هَرَقَ عَلِيٌّ جَمْرًا) یعنی اپنی جگہ پر قائم رہو یہ ایک مقولہ ہے جو غضبناک آدمی سے کہا جاتا ہے مقصد یہ ہے کہ اپنے غصہ کی آگ کو بجھاؤ۔

هَرَقَ الْمَاءَ يَهْرِيْقُهُ هَرَاقَةً: گرانا۔ اس کی اصل "أَرَاقَهُ يُرِيْقُهُ إِرَاقَةً" ہے۔ ہمزہ کو ہا سے بدل دیا گیا ہے اور هَرَاقَهُ کی اصل هَرِيْقُهُ ذُخْرَجَهُ کے وزن پر ہے اور اسی وجہ سے مضارع میں "يَهْرِيْقُهُ" ہا کو فتح دیا جاتا ہے جیسا کہ مُدْحَرَجٌ داخل کو اور امر کا صیغہ هَرَقَ کی اصل هَرِيْقٌ ہے ذُخْرَجِ کے وزن پر تخلص کی وجہ سے یا کہ کسرہ کو قفل کر کے اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا کہ حذف کر دیا گیا۔ متضاد کا صیغہ هَرِيْقُهُ اور جمع کا هَرِيْقُوا اور کہا جاتا ہے "هَرِيْقُوا عَلَيْنَا" وَأَوَّلُ السَّيْلِ: وہ لوگ تمہارے پاس ابتدائی رات میں آئے۔

اور کبھی ہاء اور ہمزہ دونوں کو جمع کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے "أَهْرَقَهُ يَهْرِيْقُهُ أَهْرَاقَةً"

<p>الْهَرْمُومُ: بدعات - خبیث عورت - المَهْرَمَةُ: مہم - انتہائی بڑھا پاپا - المَهْرَامِيَّةُ: پرانے کنوئیں - هَرْمَزُ هَرْمَزَةَ الرَّجُلِ: کمینہ ہونا - آہستہ چہانا - سہمی سے چھپا کر گفتگو کرنا الْمَهْرَمَةُ: لقمہ چہانا اور منہ میں پھرانا اور نہ لگنا النَّارُ: آگ کا بھجنا - هَرْمَسُ هَرْمَسَةً وَجْهَهُ: تیوری چڑھانا - المَهْرَمَسَةُ: مہم - لوگوں کا شور و چیخ - المَهْرَامِيَّةُ: ماہرین علم نجوم - المَهْرَمُوسُ: مضبوط رائے والا - تجربہ کار چالاک - المَهْرَامِيْسُ: لوگوں پر سخت حملہ کرنے والا شیر - المَهْرَمَاسُ: سخت حملہ کرنے والا شیر - چیتے کا بچہ - المَهْرَمِيْسُ: سخت حملہ کرنے والا شیر - گینڈا - هَرْمَطُ عَرَضَةٌ: بے آبروئی کرنا - إِهْرَمَعَ إِهْرَمَاعًا الرَّجُلُ: تیز چلنا - جلدی رونے والا ہونا - کہا جاتا ہے "إِهْرَمَعْتَ الْعَيْنُ" جب کہ آنکھوں سے آنسو جلد نکل پڑے - فِي مَنْطِقِهِ: بہت بولنا - إِهْرَمَعَ إِلَيْهِ: جھکت رہنا - المَهْرَمَعُ: جلدی رونے والا - چال میں سرعت دیکھنا - هَرْمَلَةٌ هَرْمَلَةٌ: بال اکھیرنا هَرْمَلُ الشَّغْرِ وَالْوَنْزِ وَالرَّيْشِ: اکھیرنا - کاننا - هَرْمَلُ عَمَلُهُ: بگاڑنا - خراب کرنا - هَرْمَلَتْ الْعَجُوزُ: بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہونا الْوَنْزُ: اونٹ کے بالوں کا گرنا - المَهْرَمِلُ: بوڑھی آدمی - عمر رسیدہ عورت - المَهْرَمُولُ: بالوں کا کچھ حصہ جو سر کے اطراف میں باقی رہ جائے ہر امیل - المَهْرَمُولَةُ: کپڑے کا ٹکڑا جو پرانے کرتے کے دامن سے پھٹ جائے - هَرْمَفٌ هَرْمَفَةٌ: آہستہ ہنسنا -</p>	<p>عَلَيْنَا الْأَمْرُ أَوْ السَّخَرُ" فلاں آیا اور ہمارے سامنے معاملہ کو یا خبر کو بڑا کر کے بیان کرتا ہے - أَهْرَمَةُ الذَّهْوُ: بہت بوڑھا کرنا - کمزور کر دینا - تَهْرَمُ الرَّجُلُ: جھکت اپنے آپ کو بوڑھا ظاہر کرنا - إِسْتَهْرَمَهُ: بہت بوڑھا بھجنا - بہت بوڑھا پانا - المَهْرَمُ: ایک قسم کی ترشی مائل نمکین گھاس - واحد هَرْمَمَةٌ کہا جاتا ہے "هُوَ أَذْلُ مِنَ هَرْمَمَةٍ" وہ ہرمہ گھاس سے بھی زیادہ ذلیل ہے - المَهْرِمُ: بہت بڑھا پاپا - نفس و عقل - کہا جاتا ہے "إِنَّكَ لَا تَدْرِي بِمَا يُؤَلِّعُ هَرْمِمًا" تم نہیں جانتے ہو تمہارا نفس کس چیز پر فریفتہ ہے - قَدْ ذُخِّ هَرِمٌ: ٹوٹا ہوا - المَهْرِمُ: عمدہ رائے - المَهْرَمُ: مہم - انتہائی بڑھا پاپا - المَهْرَمُ عِنْدَ أَرْبَابِ الْمَسَاحَةِ: مخرومی شکل کی عمارت جس کی کرسی مثلث یا مربع یا بہت اضلاع والی ہو - جِ أَهْرَامٍ وَهَرَامٍ اور اسی سے "أَهْرَامٌ مِصْرَ" ہے جو اس لئے بنائے گئے تھے تاکہ بادشاہوں کے مدفن کا کام دیں -</p>	<p>سکون باہ سے گویا کہ ہمزہ یاہ کی حرکت کی عوض میں بڑھا دیا گیا ہے اور اسی وجہ سے اس زیادتی سے فعل خماسی نہیں ہوتا - اسم فاعل کا سینہ مفہرینق اور اسم مفعول مَهْرَمُوقِ وَمَهْرَمُوقِ - تَهَارَفُوا: بعض کا بعض پر پانی گرانہ - إِهْرَوزِقُ إِهْرَوزِقًا الذَّمُّعُ وَالْمَطْرُ: آنسو یا بارش کا جاری ہونا - المَهْرُوقُ: پرانا کپڑا - المَهْرُوقُ: اُھْرُوقِ: کا اسم مفعول - صحیفہ - سفید ریشم کا کپڑا جس کو گوند سے چکنا کر کے لکھنے کے کام میں لاتے ہیں - چھیل بیابان - کپڑا یا کاغذ چکنا کرنے کا آلہ - جِ مَهْرَوقِ - المَهْرَمُوقَانُ وَالْمَهْرَمُوقَانُ: سمندر - کنارہ سمندر جہاں پانی چڑھے اور پھر اتر جائے اور کوڑیاں باقی رہ جائیں - مَطْرٌ مَهْرَمُوقِيٌّ: موسلا دھار بارش - هَرْمَكْلُ هَرْمَكْلَةٌ: سست اور تاز سے چلنا - جَمَلٌ أَوْ رَجُلٌ هَرْمَكْلٌ: موٹا اور بڑے جسم کا اونٹ یا مرد - المَهْرَامِكَلَةُ: بڑی بڑی مچھلیاں آبی کتے - بڑے پوتر والے دریائی جانور - سمندر کی موجوں کے جمع ہونے کی جگہ - واحد هَرْمَكْلِيٌّ - المَهْرَمَكَلَةُ وَالْمَهْرَمَكَلَةُ وَالْمَهْرَمَكَلَةُ وَالْمَهْرَمَكَلَةُ وَالْمَهْرَمَكَلَةُ: خوبصورت اندام خوش رفتار عورت - بڑے سرین والی عورت - المَهْرَمَكَلَةُ: خرام تاز - المَهْرَمَلُ: پہلے شوہر کا بیٹا - هَرْمٌ (س) هَرْمًا وَمَهْرَمًا وَمَهْرَمَةً: کمزور ہونا اور بہت بوڑھا ہونا - صفت هَرْمٌ ج هَرْمُونٌ وَهَرْمِيٌّ مَوْنَتْ هَرْمَةً جِ هَرِمَاتٍ وَهَرْمِيٍّ - هَرْمَةُ الذَّهْوُ: بہت بوڑھا کر دینا - هَرْمٌ فَلَانًا: تعظیم کرنا اللَّحْمُ: چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنا - کہا جاتا ہے "جَاءَ فُلَانٌ يَهْرِمُ</p>
--	--	---

المُهْرَنْفَة: کمزور آواز والی۔ رونے میں
ست آواز والی۔

هَرْهَرَهْرَهْرَهْ الشَّيْءُ: حرکت دینا۔
الرَّجُلُ: بے فائدہ ہنستا۔ بالمُعْتَمِ او
الإِبِلِ: بکریوں یا اونٹوں کو پانی پر بلانا یا
گھاٹ پر لے جانا۔ عَلِيَّ فُلَانٍ: دست
ورازی کرنا۔ الصَّانُ: بھیڑ کا میناں۔
وتَهْرَهْرَتِ الزُّبْحُ: ہوا کا سائیں سائیں
کرنا۔

الهَرْهَرُ: بوڑھی بکری۔
الهَرْهَرَةُ: ہنس۔ لڑائی میں ہندوؤں کے
شور و غل کی نقل۔ بھیڑ کی آواز۔ هَرْهَرَةُ
الأسد: شیر کے دہانے کی گونج۔
الهَرْهَرَةُ: انگور کی تیل کی جڑ میں انگور کا گرا
ہوا دانہ۔

الهَرْهَرُ: بہت دودھ اور پانی۔ شیر۔ ج
ہر اهر۔

الهَرْهَارُ: بہت دودھ اور پانی۔ بے فائدہ
ہنسنے والا۔ دہلا گوشت۔ شیر۔

الهَرْهَرُ: بہت دودھ اور پانی۔ آواز دینے
والا جاری پانی۔ ایک قسم کی شستی۔ انگور کا
تکھڑا ہوا دانہ۔ بوڑھی بکری۔

الهَرْهِيرُ: ایک قسم کی مچھلی۔ ایک خبیث قسم کا
سانپ۔

هَرْهَرَةٌ هَرْهَرَةٌ هَرْهَرَةٌ: لاشمی سے
مارنا۔ ڈنڈے سے مارنا۔

الهَرْهَرَةُ: مونا ڈنڈا۔ سوٹا۔ ج ہر راوی
وہڑی و ہڑی۔

الهَرْهَرُ: ہر دو کیڑوں کو بیچنے والا۔

هَرْهَرَةُ خِرَاسَانٍ: ایک شہر کا نام۔ نسبت
کے لئے خروٹی۔

هَرْهَرٌ: تیز چلنا۔ دوڑنا۔

هَرْهَرٌ يَهْرِيهِ هَرْهَرًا: ڈنڈے سے مارنا۔
هَرْهَرٌ تَهْرِيهِ القُوبِ: کپڑے کو زور دینا۔
هَارَةٌ مَهَارَةٌ: باہم ٹھٹھا کرنا۔

الهَرْهَرُ: بھور کا پودہ۔
الهَرْهَرُ: گیہوں وغیرہ جمع کرنے کا بڑا مکان

ج اَهْرَاءُ.

هَرْهَرَانِ (هَرْهَرَانِ) هَرْهَرَانِ وَالشَّيْءُ: بلانا۔ جِئْنِ
عَطْفُ فُلَانٍ: کام کے لئے اُبھارنا۔ هَرْهَرَهُ
الشَّيْرُ: سیر کی وجہ سے جلدی چلنا۔
هَرْهَرِيًّا (الابِلِ): اونٹ کو حدی سے نشاط میں
لانا۔ الكَوْكَبُ: ستارہ کا ٹوٹنا۔

هَرْهَرَةٌ تَهْرِيًّا: بلانا۔
إِهْرَهْرٌ: بلانا۔ الابِلِ: اونٹ کا حدی کی آواز
سے چلنے میں جھومنا۔ اِهْرَهْرٌ إِلَيْهِ قَلْبُهُ: خوش
ہونا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ يَهْرَهْرُ لِلْمَعْرُوفِ" وہ

ایچھے اعمال سے خوش ہوتا ہے۔ الماءُ فِي
جَرِيئِهِ: پانی کا رواں ہونا۔ الكَوْكَبُ
فِي انْقِصَابِهِ: ستارہ کا جلدی ٹوٹنا۔
الأَرْضُ: آگنا۔ النَّبَاتُ: لہلہا تا اور
بزھنا۔

تَهْرَرٌ: بلانا۔ جھومنا۔
الهَرْهَرَةُ: ہر مہرہ۔ اِسْرَافَةُ هَرْهَرَةٌ: برائی
سے خوش ہونے والی عورت۔ جِئْنِ لِسَاءِ
هَرْهَرَاتٍ.

الهَرْهَرَةُ: ہر مہرہ کا اسم۔ نوح۔ نشاط و شادمانی۔
ہانڈی کے جوش کی آواز۔ بادل کی
گڑ گڑاہٹ۔ اونٹوں کی چال کی ایک قسم۔
انہماط و بحالی فرحت۔

الهَرْهَرِيُّ: ہنس۔ بادل کی گڑ گڑاہٹ۔ ہوا کی
سر سراہٹ۔

الهَرْهَرِيُّ: سختیاں (اس کے لئے واحد نہیں)
المَهْرِيُّ وَالمَهْرَةُ: حرکت۔

هَرْهَرَةٌ يَهْرَهُ هَرْهَرًا: توڑنا۔ هَرْهَرِيَّةٌ: سردی
سے مارڈالنا۔ وَجَلَّتْ: بلانا۔ هَرْهَرًا زَيْدٌ:
مرنا۔

هَرْهَرٌ وَهَرْهَرِيٌّ يَهْرَهُ هَرْهَرًا وَهَرْهَرَةً
وَهَرْهَرَةً وَهَرْهَرَةً بِفُلَانٍ وَمِنْهُ: جھٹھا کرنا۔
هَرْهَرِيٌّ (س): ہر مہرہ: امرنا۔
أَهْرًا هَرْهَرًا: سخت سردی میں داخل ہونا۔

..... اِبِلَةٌ: سردی سے مارڈالنا۔ اَهْرَاتٌ بہ
ذابنہ: جلدی لے جانا۔

تَهْرَرٌ تَهْرَرَةٌ وَتَهْرَرًا تَهْرَرَةً وَاسْتَهْرَرًا

اسْتَهْرَرًا: ٹھٹھا کرنا۔

الهَرْهَرِيُّ: فا۔ کہا جاتا ہے "هَذِهِ مَفَارَةٌ هَارِيَّةٌ
بِالرَّكْبِ وَهَرْهَرَةٌ بِهِمْ" یہ بیابان دشوار
گزار ہے۔ وَاعْدَادَةُ هَارِيَّةٌ: بہت ٹھنڈی
صبح۔

رَجُلٌ هَرْهَرَةٌ: جس سے ٹھٹھا کیا جائے۔ کہا
جاتا ہے "هُوَ هَرْهَرَةٌ بَيْنَ النَّاسِ" یعنی لوگ
اس سے ٹھٹھا کرتے ہیں۔

رَجُلٌ هَرْهَرَةٌ: لوگوں سے ٹھٹھا کرنے والا
مرد۔

الهَرْهَرِيُّ: مضبوط قوی اونٹ۔ بڑی عمر کا
اونٹ۔ گدھ۔

الهَرْهَرِيُّ: مضبوط شیر۔
هَرْهَرِيَّةٌ: کاٹنا۔

الهَرْهَرِيُّ وَالهَرْهَرِيُّ وَالهَرْهَرِيُّ: شیر۔ الهَرْهَرِيُّ:
مونٹا۔ مضبوط قوی۔ ج ہر راہر۔
هَرْهَرِيٌّ هَرْهَرِيَّةٌ: بہت محتاج ہونا۔
الهَرْهَرِيَّةُ: بہت تھوڑا سا۔

هَرْهَرِيٌّ (س) هَرْهَرِيٌّ: ہنسنے والی غناہہ:
گوئیے کا کمر سے گانا پڑھنا۔ بحرِ هَرْهَرِيٌّ
کے اشعار پڑھنا۔

هَرْهَرِيٌّ: ہر سے گانا۔ صَوْنَةٌ: پے در پے
آواز نکالنا۔

أَهْرَجُ الشَّاعِرُ: بحرِ ہرج کے اشعار بنانا۔
تَهْرَجُ: ہر سے گانا۔ الصَّوْنُ: پے در
پے ہونا۔ تَهْرَجَتْ القَوْمُ: آواز نکالنا۔
الرَّغْدُ: بادل کا گڑ گڑانا۔

الهَرْهَرِيُّ: ہنس۔ بادل کی گڑ گڑاہٹ۔
ترانہ۔ ہر۔ طرب انگیز آواز۔ ہر کلام جو
متناسق ہو اشعار کی ایک بحر کا نام۔
جانوروں کی ٹانگ پڑنے کی سرعت اور
خفت۔

الهَرْهَرِيُّ: طرب انگیز۔ کہا جاتا ہے "مُسْغِيٌّ
هَرْهَرِيٌّ" طرب انگیز گونا۔ فَرْسٌ هَرْهَرِيٌّ: گھوڑا
جس کی ٹانگ جلدی اور ہلکی پڑے۔

الهَرْهَرِيُّ مِنَ اللَّيْلِ: رات کا ایک حصہ۔
الأَهْرُوجَةُ: ترم آمیز گیت ج آہاز بیج۔

هَزْرَةٌ (ض) هَزْرًا بِالْعَصَا: دُغْرَے سے بہت مارنا۔ هَزْرُ الشَّيْءِ: سخت چھوونا۔
فَلَاتَا: جلا وطن کرنا۔ صفت مغولی مَهْزُورٌ وَهَزِيرٌ بِه الْأَرْضُ: پھیلاؤنا۔ لِفَلَانٍ: بہت دینا۔ الرَّجُلُ: ہنسا۔ حاجت کے لئے جلدی کرنا۔ الْبَانِعُ: گراں کرنا۔ قیمت بڑھا دینا۔

الهَزَارُ: بلبل۔ ہزار داستانِ حِ هَزَارَاتِ الهَيْرُ: نقصان زدہ۔ بیوقوف۔ سخت۔
الهَزْرَةُ وَالْهَزْرَةُ: نرم زمینِ حِ هَزَارَاتِ الـهَزْرَةُ: کاہلی۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ ذُو هَزْرَاتٍ" ہر چیز میں نقصان زدہ مرد۔ رَجُلٌ مَهْزُورٌ: ہر چیز میں نقصان زدہ مرد۔ هَزْرَفٌ فِي عَدْوِهِ: تیز دوڑنا۔

الهَزْرَافُ وَالْهَزْرَافُ وَالْهَزْرُوفُ وَالْهَزْرُوفُ: تیز رفتار ہلکا پھلکا شترمرغ۔ الـهَزْرُوفُ: بڑے جسم والا۔ هَزْرَعٌ (ف) هَزْرَعًا: جلدی کرنا۔ الشَّيْءُ: توڑنا۔

هَزْرَعُهُ تَهْزِرُهُ: کلے کلے کرنا۔ تَهْزِعُ الرَّجُلُ: جلدی کرنا۔ توری چڑھانا۔ لَهُ: اپنے کو نا شناختہ بنانا۔ تَهْزَعَتِ الْمَرْأَةُ فِي مَشِيَّتِهَا: ڈرگانا۔ الْإِبِلُ فِي سَبْرِهَا: اونٹ کا چلتے ہوئے جھومنا۔

إِنْهَزَعَ الشَّيْءُ: ٹوٹنا۔ اَهْتَزَعَ: جلدی کرنا۔ جھڑکنا۔ الشَّيْفُ وَنَحْوُهُ: تلوار وغیرہ کا حرکت کرنا۔ الهَزْعُ: اضطراب۔

الهَزَاعُ: اکیلا۔ کہا جاتا ہے "صَافِي الْجَعْبَةِ إِلَّا سَهْمٌ هَزَاعٌ" ترکش میں صرف ایک ہی تیر ہے۔

الهَزَاعُ: شکار کو بہت پھاڑنے والا شیر۔ الهَزَاعُ: شکار کو بہت پھاڑنے والا شیر۔ الهَزْيَعُ مِنَ اللَّيْلِ: رات کا ایک حصہ یا تہائی یا پوتھائی رات اور بقول بعض رات کی ایک ساعت۔ حِ هَزْعٌ: الهَزْيَعُ: بیوقوف۔

الْأَخْـزَعُ: ترکش کا آخری تیر عمدہ ہوا یا

خراب۔ کہا جاتا ہے "مَسَالَهُ أَهْزَعٌ" اس کے پاس کچھ نہیں "وَمَا فِي الدَّارِ أَهْزَعٌ" گھر میں کوئی نہیں۔ "وَمَا بَقِيَ فِي سَنَامِ بَعِيرِكَ أَهْزَعٌ" تمہارے اونٹ کے گوبان میں بقیہ چربی نہیں۔

الهَيْزِعَةُ: خوف۔ جنگ میں شور۔ السَّمْهَزُوعُ: درختوں کو توڑنے والا۔ کوشٹے کا آلہ۔ سَيْفٌ مَهْزِعٌ: بہت حرکت کرنے والی تلوار۔ فَرَسٌ مَهْزِعٌ: تیز دوڑنے والا گھوڑا۔

هَزْرَفْتُهُ (ض) هَزْرَفًا الرَّيْحُ: ہلکا پانا۔ اڑا لے جانا۔

هَزَقٌ (س) هَزَقًا: چست ہونا۔ فِي الصَّحْحِ: بہت ہنسا۔

أَهْزَقَ فِي الصَّحْحِ: بہت ہنسا۔ الهِـزَقُ: چستی۔ سکی۔ بادل کی تیز گزرگاہ۔

الهَزَقُ: سخت گرج۔ مِّنَ الرَّجَالِ: بہت ہنسنے والا اوچھا مرد۔ الهِزَاقَةُ مِنَ النِّسَاءِ: عورت جس کو ایک جگہ پر رقرار نہ ہو۔

الْمَهْزِقُ: پینچل عورت بہت ہنسنے والی۔ رَجُلٌ مَهْزِقٌ: بہت ہنسنے والا اوچھا مرد۔

هَزَلٌ (ن) وَهَزَلٌ (س) وَهَزَلٌ هَزَلًا وَهَزَلًا وَهَزَالًا: کمزور ہونا۔ دبلا ہونا۔ هَزَلْتُ خَالَ فُلَانٍ: تنگ ہونا۔ هَزَالٌ جِسْمٌ كِي تَشْبِيهِ دیتے ہوئے) کہا جاتا ہے "لَهُ فَضْلٌ جَسَدِيٌّ وَخَالَ هَزِيلٌ" اس کا فضل بہت زیادہ ہے اور حال پتلا ہے۔

هَزَلٌ (ض) هَزَلًا فِي مَخْلَقِيهِ: جھٹھا کرنا۔ بکواس کرنا۔ بے ہودگی کرنا۔ السَّدَابَةُ: دبلا کرنا۔ اچھی طرح نگہبانی نہ کرنے کی وجہ سے کمزور کرنا۔ هَزَلُ الْقَوْمِ: ڈبلے مویشی والا ہونا۔ فُلَانٌ: جانوروں کے مرنے کی وجہ سے محتاج ہونا۔

هَزَلَةٌ: لاغر و دبلا کرنا۔

هَزَلٌ مُهَازَلَةٌ: بیہودگی کرنا۔ فُلَانًا: جھٹھا کرنا۔

أَهْزَلَ فُلَانًا: کمزور کرنا۔ هَزَلٌ فِيهِ: ایک نکت ہے مگر زیادہ فصیح نہیں) کھلاڑی پانا۔ الْقَوْمُ: ڈبلے مویشی والی ہوتا۔ سختی اور تنگی کی وجہ سے اپنے مال کو روک لینا۔

الهَزَالُ: مہیں۔ لاغری۔ دبلا پن۔ الهِزَالَةُ: خوش طبعی۔ کہا جاتا ہے "وَقَفَّشَتْ بَيْنَهُمَا هِزَالَةً" ان کے درمیان خوش طبعی ہے۔

الهَزَالُ وَالْهَزِيلُ: بہت ڈبلا۔ الهِزَالِيُّ: شعبہ باز کا فعل۔

الهِزَالِيُّ: بہت سادہ (جمع ہے واحد نہیں)۔ الهِزَالِيُّ: دبلا۔ حِ هِزَالِيٌّ:

الهِزَالِيَّةُ: هِزَالٌ: سے اسم مشتق ہے۔ جیسے شَعْمٌ ہے شَيْئَةً پھر هِزَالِيَّةٌ کا اطلاق اونٹوں میں ہونے لگا۔ حِ هِزَالِيٌّ وَهَزَالِيٌّ:

الهِزَالِيَّةُ: بڑا جھنڈا۔ کہا جاتا ہے "نَسَاؤُوا وَفِيهِمْ هِزَالَةٌ" وہ لوگ چلے اور ان کے اندر بڑا جھنڈا تھا۔

السَّمْهَزُولُ: لاغر شدہ حِ مَهْزَالِيٌّ: اَرْضٌ مَهْزُولَةٌ: نرم زمین۔

الْمَهْزَالُ: خشک سالیان۔ هَزَلَجٌ هَزَلَجَةٌ: جلدی کرنا۔

الهِزَالَجُ: جلد باز۔ ہلکا پھلکا۔ بھیڑیا۔ حِ هَزَلَجٌ:

الهِزَالَجَةُ: مہیں۔ آوازوں کا اختلاط۔ جلدی۔

الهِزَالَجُ: تیز رفتار۔

هَزَمٌ (ض) هَزْمًا الْعَلْوُ: دشمن کو شکست دینا۔ الشَّيْءُ: ہاتھ سے دبا کر گڑھا ڈالنا۔ فُلَانًا: ایسی شرب مارنا کہ سر میں سے ناف پر نکل آئے۔ الْقَمُوسُ: کمان کا آواز دینا۔ لَهُ حَقُّهُ: حق کم کرنا۔ الْبِزْرُ: کنواں کھودنا۔ فُلَانًا: قتل کرنا۔ هَزْمًا: اللَّيْلُ: سفیدی صبح کا پھینسا۔ هَزْمَةٌ عَلَيْهِ: مہربان بنایا جانا۔

64
64

هَزَمَ الْعَدُوَّ: دشمن کو شکست دینا (تشدید
مبالغہ کے لئے ہے)

تَهَزَمَتِ الْقَوْسُ: کمان کا آواز دینا.....
الرَّعْدُ: گرجنا..... السُّحْبُ بِالْمَاءِ: آواز

کے ساتھ برسنے..... الْقِرْبَةُ: مشک کا خشک بو
کر پھینا۔ تَهَزَمَ الْبِنَاءُ: عمارت کا گر پڑنا۔

إِنْهَزَمَ: شکست کھانا۔ الْعَصَا: لاشی کا چڑچڑا
کر ٹوٹنا۔ الْجَيْشُ: شکست کھانا۔ اِهْتَزَمَتِ

السَّحَابَةُ بِالْمَاءِ: آواز کے ساتھ برسنے.....
الْفَرَسُ: گھوڑا چلنا اس طرح پر کہ آواز

سنائی دے۔ اِهْتَزَمَ الشَّاةُ: بکری کو ذبح
کرنا..... الشَّيْءُ: سبقت کرنا۔ جلدی کرنا۔

اسْتَهْزَمَ الْجُيُوشُ: شکست دینا۔ شکست
چاہنا۔ شکست خوردہ پانا۔

الهِازِمَةُ: مصیبت ج ہوازم۔
الهَزْمُ: مہم۔ پست زمین۔ بغیر پانی کے پتلا

بادل ج ہزوم۔
الهَزْمُ مِنَ الْخَيْلِ: مطیع۔ کہا جاتا ہے "فَرَسٌ

هَزَمٌ وَفَرَسٌ هَزَمٌ الصُّوْبُ" بادل کی گرج
کے مشابہ آواز والا گھوڑا۔ غَيْثٌ هَزِيمٌ:

موسلا دھار بارش۔
الهَزْمُ: کمان کی آواز۔

الهَزِيمَةُ: اسم مرہ۔ سینہ کا گڑھا۔ سبب وغیرہ
کا گڑھا جو ہاتھ سے دبانے سے پیدا ہو۔

ہنسی کی بڑیوں کے درمیان کا گڑھا۔ پست
زمین ج ہزوم و ہزوم و ہزومات۔ ہزوم

التَّجْوِيفُ: پیٹ میں داند پانی کی جگہ۔
قَلْبُ هَزِيمَةٍ: بہت اٹنے والی ہانڈی۔

الهَزُومُ: آواز دینے والی کمان۔ کہا جاتا ہے
"قَوْسٌ هَزُومٌ بَيْنَةَ الْهَزْمِ" بہت آواز

نکلنے والی کمان۔
الهَزِيمُ: گرج کی آواز۔ گرج۔ سخت آواز

والا گھوڑا۔ غَيْثٌ هَزِيمٌ: ندرکنے والی بارش
جیش ہزیم۔ شکست خوردہ لشکر۔

الهَزِيمَةُ: شکست ج ہزائم۔ الهَزَائِمُ: بہت
پانی والے کنوئیں۔ هَزِيمَةُ الْفَرَسِ: سخت

دوڑ کے وقت پسینہ کا نکلنا۔

الْمُهْزَمُ: سخت مضبوط۔ شیر۔
الْمُهْزِمِيُّ: شکست۔

الْمُهْزَمُ: فاعل۔ گرج قَصَبٌ مُهْزَمٌ وَمُهْزَمٌ:
ٹوٹا ہوا یا پھینا ہوا نرکل۔ سِقَاءٌ مُتَهْزَمٌ

وْمُهْزَمٌ: باوجود خشک ہونے کے تکی ہوئی
مشک۔

المُهْزَمُ: کریمتی۔ چھوٹی لاشی۔ نیشی۔ ج
منہازیم۔

هَزَمَ هَزْمَةً هَزْمَةً: تابع کرنا۔ هَزَمَ الشَّيْءُ:
بلانا۔

تَهَزَمَ الشَّيْءُ: بلنا..... إِلَيْهِ قَلْبِي: خوشی سے
اچھلنا۔

الهَزَاهُزُ: بہت جاری ہونے والا پانی۔ بعبر
هَزَاهُزُ: تیز آواز والا اونٹ۔

الهَزَاهُزُ: فتنے جو انسان کو جہز جہز ادریں۔ کہا
جاتا ہے "فَلَانَ شَهْدَ الْهَزَاهُزِ" فلاں

جنگوں اور سختیوں میں حاضر ہوا۔
الهَزَاهُزُ: بہت جاری ہونے والا پانی۔

"سَيْفٌ هَزَاهُزٌ" بہت چپکنے والی ساف
تلوار۔

الهَزَاهُزُ: بہت جاری ہونے والا پانی اور کہا
جاتا ہے "مَاءٌ هَزَاهُزٌ وَهَزَاهُزٌ وَهَزَاهُزٌ"

یعنی لہریں لینے والا پانی۔ "وَبِتُّ هَزَاهُزٌ" گھبرا
کنواں "وَعَيْنٌ هَزَاهُزٌ" بہت پانی والا کشادہ

چشمہ۔
الهَزَاهُزَةُ: مہم۔ جنگ وقت ہزہز کا نا۔ کہا جاتا

ہے شَهِدَ فَلَانَ الْهَزَاهُزَةَ: فلاں جنگ وقتے
میں حاضر ہوا۔

هَشَّ (ن) هَشًا الشَّيْءُ: کوٹنا۔ توڑنا۔
هَشَّ (ض) هَشًا: دل میں بات کرنا۔

الْكَلَامُ: چچپانا۔
الهِيسُ: ریزہ ریزہ کیا ہوا۔ پوشیدہ کلام۔

هَيْسُ السَّجِنِ وَهَسَّهَا: بیابان میں
جنوں کی آواز۔

هَشَّ هَشًّا الْمَاءُ: پانی کا لگا تار بہنا
..... السَّبْرُعُ أَوْ السَّحْلِيُّ: زرہ یا زیور میں

جھنکار ہونا..... الْحَدِيثُ: بات چچپانا۔

تَهَشَّسَ السَّبْرُعُ أَوْ السَّحْلِيُّ: زرہ یا زیور
میں جھنکار ہونا۔

الهَشَّاسُ: رات میں چلنا۔ هَشَّاسُ
النَّاسِ: آہستہ گفتگو۔

الهَشَّاسُ: تمام رات بکریاں چرنے والا
چرواہا۔ کام کے لئے ساری رات بیدار

رہنے والا۔ قصائی۔ غیر مفہوم کلام۔
وسوسہ۔

الهَشَّاسَةُ: مہم۔ زرہ یا زرہ کی جھنکار
نرم آواز والی چیز۔

هَشَّ (ن ض) هَشًا وَزَقَّ الشَّجَرُ: پتے
چھاڑنا۔

هَشَّ (ض) هَشْوَشَةً الْغُبُزُ: روٹی کا نرم
ہونا..... الرَّجُلُ: ست و کمزور ہونا۔

هَشَّ (س ض) هَشَّاشَةً وَهَشَّاشًا:
سکرانا۔ بھلائی پر خوش ہونا۔ شادمان ہونا۔

نشاط میں ہونا۔ کہا جاتا ہے "هَشَّاشٌ
وَهَشَّاشٌ بِفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَأَهْشُ وَأَهْشُ

بِهِ وَلَهُ" میں فلاں سے خوش ہوا۔
هَشَّ (س) هَشَّاشَةً وَهَشْوَشًا الشَّيْءُ: نرم

اور ڈھیلا ہونا۔ صفت۔ هَشَّ: بکری کا نرم ہونا
کہ جلدی ٹوٹ جائے۔

هَشَّاشَةٌ: نرم سمجھنا۔ خوش کرنا۔ شادمان
بنانا۔

إِهْتَشَّ لِكَذَا: خوش ہونا۔ خواہش مند ہونا۔
إِهْتَشَّ فَلَانٌ بِي: فلاں مجھ سے خوش ہوا۔

اسْتَهَشَّ: لگا سمجھنا۔
خَبِرَ هَشَّاشٌ: نرم روٹی۔

الهَشَّ: مہم۔ نرم ڈھیلا۔ خُبْرَةٌ هَشَّةٌ: نرم
روٹی اور کہا جاتا ہے "فَلَانَ هَشَّاشٌ

السَّكْسِرُ" فلاں مہربان اور نرم عادت والا
ہے "وَفَلَانَ هَشَّاشٌ الْوَجِيه" فلاں ہنس کھنے

اور کہا جاتا ہے "فَرَسٌ هَشَّ" بہت پسینہ والا
گھوڑا۔ "وَفَرَسٌ هَشَّ الْعَبَانُ" نرم گام والا

گھوڑا۔ "وَأَنْسَابَهُ هَشَّ" میں اس سے بہت
خوش ہوں۔

قِرْنَةٌ هَشَّاشَةٌ: پانی پکانے والی مشک۔ نَافَةٌ

هَشُوْشٌ اَوْشَاةٌ هَشُوْشٌ : بہت دودھ دینے والی اونٹنی یا بکری۔

الهِيشِيشُ : مانگنے سے خوش ہونے والا۔ نرم ڈھیلا ڈھالا۔ توڑا ہوا۔ چورہ کیا ہوا۔

هَشْرَانٌ (هَشْرًا النَّاقَةُ : اونٹنی کا سارا دودھ دودھ لینا۔

الهَيْشُرُ : مِص - بکاپن - پتلپن - الهَيْشَرَةُ : اَكْر - غرور۔

شَجْوَةٌ هَيْشِرَةٌ وَهَشْوُزٌ : درخت جس کے پتے جلدی گر جائیں۔

الهَيْشُرُ مِنَ الرَّجَالِ : نرم کمزور و لمبا مرد۔

هَشَلْتُ تَهْشِلًا النَّاقَةَ : تھوڑا دودھ اتارنا۔

أَهْشَلُ الرَّجُلُ : سواری کا جانور بغیر مالک کی اجازت کے دینا۔

أَهْشَلُ الْفَرَسِ : گھوڑے پر بغیر مالک کی اجازت کے سوار ہونا۔

الهَيْشِيلَةُ : سواری کا جانور جس پر بغیر مالک کی اجازت کے سوار ہوں۔

وغيرها: نصب کیا ہوا اونٹ وغیرہ۔

الهَيْشِيلَةُ : عمر رسیدہ موٹی اونٹنی۔

هَشْمٌ (ض) هَشْمًا الشَّيْءُ : توڑنا۔ کہا جاتا ہے "هَشْمُ الثَّرِيدِ لِقَوِيهِ" اس نے اپنی قوم کے لئے روٹی کو توڑ کر شور بے سے تر کر کے ٹرید بنایا۔ صفت ہاشم۔

هَشْمٌ الشَّيْءُ : توڑنے میں مبالغہ کرنا۔

فَلَاتَا : اكرام و تعظيم کرنا۔ النَّاقَةُ : اونٹنی کو ددینا۔

تَهَشَّمُ الشَّيْءُ : ٹوٹنا۔ الشَّجْرُ : خشک ہو کر ٹوٹنا۔ الْاِبِلُ : اونٹ کا ست و کمزور ہونا۔

فَلَانَ الشَّيْءُ : توڑنا۔ الرَّجُلُ : اكرام و تعظيم کرنا۔ النَّاقَةُ : اونٹنی کو ددینا۔

زَيْدًا : مہربان بنانا۔ رِضًا مند کرنا۔ عَلِيٌّ فَلَانَ : مہربان ہونا۔ تَهَشَّمَتِ الْأَرْضُ : بارش منقطع ہونے سے زمین کا خشک ہونا۔ کہا جاتا ہے "تَهَشَّمَتِ لِلْمَعْرُوفِ" اس نے اس سے بھلائی طلب کی۔

إِهْتَشَمَ الشَّيْءُ : ٹوٹنا۔ إِهْتَشَمَتِ الْاِبِلُ : اونٹ کا ست و کمزور ہونا۔

أَهْتَشَمَ النَّاقَةُ : اونٹنی کو ددینا اور کہا جاتا ہے "أَهْتَشَمَتْ نَفْسِي لَه" میرا نفس اس کے سامنے مطیع و فرمانبردار ہو گیا اور بغیر انصاف کے راضی ہو گیا۔

الهَاشِمَةُ : الهَاشِمِيُّ : کامونٹ۔ سرکارِ ختم جو بڑی کوتاہی دے۔

الهَيْشَامُ : سخاوت۔ بخشش۔

الهَيْشَمُ : مِص - قحط زدہ زمین۔ پست زمین۔ جِ هَشْوَمٌ۔

الهَيْشِمُ : مخی۔ فیاض۔

الهَيْشَمُ : نرم پہاڑ۔ دودھ کے ماہر۔ دوہنے والے۔ واحد ہاشم۔

الهَيْشَمَةُ : هَشْمٌ : کا اسم مرہ۔

الهَيْشَمَةُ : پہاڑی بکری۔ جِ هَشَمَاتٌ۔

الهَيْشِيمُ : توڑا ہوا۔ ٹوٹی ہوئی خشک گھاس۔ خشک شدہ گھاس یا درخت۔ پہلے سال کی باقی ماندہ گھاس۔ کہا جاتا ہے "تَبَثَّتْ هَيْشِيمٌ" جیسا کہا جاتا ہے "تَبَثَّتْ عَصَابِي وَحَبِطِيمٌ" کمزور بدن والا۔ کہا جاتا ہے "صَارَتِ الْأَرْضُ هَيْشِيمًا" زمین کے درخت اور گھاس خشک ہو گئے اور ٹوٹ گئے۔

الهَيْشِيمَةُ : زمین جس کے درخت خشک ہو گئے ہوں۔ خشک درخت۔

نَاقَةُ مِهْشَامٍ : جلدی لاغر ہونے والی اونٹنی۔

كَلَامًا هَيْشُوْمٌ : نازک و نرم گھاس۔

هَشَّهَشَ الشَّيْءُ : بلا نا۔

الهَشْهَاشُ : اچھے اخلاق کا بختری مرد۔

هَاشَاهُ مَهَاشَاةٌ : بے مذاق کرنا۔

هَضَّ (ن) هَضًّا الشَّيْءُ : روند کر کچلانا۔

بَارِكٌ كَرْنَا : توڑنا۔ اَنْظِيوْنَ : زور سے دبانے۔ صفت مفعول ہضِضٌ وَ مَهْضُوْصٌ۔

هَضَّصَ الرَّجُلُ : چنگدار آنکھوں والا ہونا۔ اچھی طرح آنکھیں کھولنا۔ گھورتا۔

الْهَاضَةُ : ہاتھی کی آنکھ۔

الهَيْضُ : مِص - سخت چیز۔

الهَيْضُ : مِص - سخت چیز۔

الهَيْضُ : مِص - سخت چیز۔

الهَيْضُ : مِص - سخت چیز۔

الهَيْضُ : مِص - سخت چیز۔

الهَيْضُ : مِص - سخت چیز۔

الهَيْضُ : مِص - سخت چیز۔

الهَيْضُ : مِص - سخت چیز۔

الهَيْضُ : مِص - سخت چیز۔

الهَيْضُ : مِص - سخت چیز۔

الهَيْضُ : مِص - سخت چیز۔

الهَيْضُ : مِص - سخت چیز۔

الهَيْضُ : مِص - سخت چیز۔

الهَيْضُ : مِص - سخت چیز۔

الهَيْضُ : مِص - سخت چیز۔

الهَيْضُ : مِص - سخت چیز۔

الهَيْضُ : مِص - سخت چیز۔

الهَيْضُ : مِص - سخت چیز۔

الهَيْضُ : مِص - سخت چیز۔

کرتا۔ صفت مفعولی هَضِيضٌ وَمَهْضُوضٌ
هَضَبَتِ الْإِبِلُ: اونٹ کا تیز دوڑنا۔ هَضَّ
فُلَانٌ الْمَشَى: عمدہ چال چلنا..... فَلَانَا:
بھڑکانا۔ اُکسانا۔
هَضَضَ: زمین پر زور سے پاؤں مارنا۔
إِنْهَضَ الشَّىءُ: ٹوٹنا۔
أَهْتَضَ الشَّىءُ: توڑنا۔ کہا جاتا ہے "أَهْتَضَ
نَفْسَهُ فُلَانٌ" وہ فلاں کے سامنے تاجید راہو
گیا اور بغیر انصاف کے راضی ہو گیا۔
الهِضَاءُ: لوگوں کی جماعت۔ گھوڑوں کا
گلد۔
الهِضَاضُ: اسم مبالغہ۔ فَحَلَّ هَضَاضٌ:
جوانوں کی گردن توڑ دینے والا۔
الهِضَضُ: ٹوٹ۔
هَضَبَتِ (ض) هَضَبًا الشَّمَاءُ: برساتنا.....
الشَّمَاءُ الْقَوْمُ: اچھی طرح سے تر کر دینا۔
هَضَبَ الرَّجُلُ: ست چال چلنا..... الْقَوْمُ
فِي الْحَدِيثِ: باتوں میں مشغول ہونا اور
آواز بلند کرنا اور کہا جاتا ہے "أَهْضَبُوا
يَاقَوْمُ" یعنی بات چیت کرو۔
أَهْضَبَ الْقَوْمُ: پہاڑ کی چوٹیوں پر اترنا۔
أَهْتَضُوا فِي الْحَدِيثِ: باتوں میں مشغول
ہونا اور آواز بلند کرنا۔
إِسْتَهْضَبَ الْجَبَلُ: پہاڑ کا زمین پر پھیلا ہوا
ہونا۔ مستطیل ہونا۔
الهِضْبَةُ: زمین پر پھیلا ہوا پہاڑ۔ اکیلا لمبا
پہاڑ۔ بلند زمین۔ بارش کی بوچھاڑ۔ ج
هَضْبٌ وَهَضْبٌ وَهَضَابٌ وَهَضَابَاتٌ وَج
أَهْضَابٌ. رَجُلٌ هَضْبٌ: بہت بولنے والا
مرد۔
الهِضْبُ: مضبوط وقوی۔ بہت سینے والا
گھوڑا۔
عَنَمٌ هَضِبٌ: کم دودھ والی بکری۔
الْأَهْضُونَةُ مِنَ الْمَطَرِ: بارش کی بوچھاڑ۔
ج أهضيب.
رَوْضَةٌ مَهْضُونَةٌ: بارش سے سیراب باغ۔
هَضِجٌ الْمَوَاشِي: اچھی طرح نہ جرانہ۔

صَيَانٌ هَضِيحٌ: چھوٹے بچے (اس کیلئے
واحد نہیں)
هَضَلَّ (ن ض) هَضَلًا بِالسَّعْفِ
بِالْكَلَامِ: بہت کہنا۔
أَهْضَلَتِ السَّمَاءُ: برساتنا..... الدَّلْوُ: ڈول کا
کنوین میں ٹکرا کر پانی سے بھر جانا۔
الهَضَلُ: مہس۔ بہت۔
الهَضَلَاءُ: لمبے پستان والی عورت۔
الهَضَالُ: حدی گانے والا۔
الهَيْضَلُ: تھمیرا بند جماعت۔ بڑا شکر
جَمَلٌ هَيْضَلٌ: موٹا بڑا المہا اونٹ۔
الهِضَلَةُ مِنَ الثَّوْقِ: موٹی لمبی اونٹنی۔ عمر
رسیدہ۔ زیادہ دودھ دینے والی۔ ادھیڑ
عورت۔ تھمیرا بند جماعت۔ لوگوں کی
آواز۔
هَضَمَ (ن) هَضْمًا الشَّىءُ: توڑنا.....
فَلَاتُوا: ظلم کرنا۔ غصب کرنا اور اسم
الهِضِيمَةُ. هَضَمَهُ حَقَّةً: حق کم کرنا۔ هَضَمَ
لَهُ مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا: رضامندی سے اپنے حق
میں سے کچھ چھوڑ دینا..... لَهُ مِنْ مَالِهِ:
دینا۔ هَضَمَتِ الْمَعْدَةُ الطَّعَامَ: غذا کو جزو
بدن ہونے کے قابل بنا دینا۔ هَضَمَ عَلَيَّ
الْقَوْمُ: اچانک پینچنا۔ کہا جاتا ہے "مَا
شَعَرُوا بِسَاحَتِي هَضَمْنَا عَلَيْهِمْ" ان کو
ہماری اطلاع نہیں ہوئی اور ہم اچانک ان
کے پاس پہنچ گئے "وَمَا هَضَمَ عَلَيْهِ" وہ اس
سے قریب نہیں ہوا۔
هَضَمَ (س) هَضْمًا: تازہ کر اور پتلی کرو والا
ہونا۔ صفت مذکر اھضم مَوْتٌ هَضْمَاءُ ج
هَضْمٌ کہا جاتا ہے "فِي كَشْحِهِ هَضْمٌ"
یعنی وہ بڑے پیٹ والا نہیں ہے یا اس کی کمر
پتلی ہے۔ هَضَمَتِ الْخَيْلُ: گھوڑے کا اٹھی
ہوئی پٹیلوں اور جھکے ہوئے پیٹ والا ہونا
(اور یہ عیب ہے)
تَهَضَّمُ: ظلم کرنا۔ چھین لینا۔ ذلیل کرنا۔
تَوَزَّنَا: تَهَضَّمٌ لِلْقَوْمِ: مطیع ہونا۔ کہا جاتا
ہے "تَهَضَّمْتُ لَهُ نَفْسِي" یعنی میں اس

سے بغیر انصاف کے راضی ہو گیا۔
إِنْهَضَمَ الطَّعَامَ: غذا کا جزو بدن ہونے کے
قابل ہونا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا طَعَامٌ سَرِيْعٌ
الْإِنْهَضَامِ" یہ کھانا جلدی جزو بدن ہونے
کے قابل ہے..... الشَّىءُ: ملنا۔
إِنْهَضَمَهُ: ظلم کرنا۔ چھین لینا۔ حق دہانا۔
الهَضِيمُ: فاقہ۔ شئی هَضِيمٌ: نرم چیز۔
الهَضِيمَةُ. الهَضِيمُ: کاموٹ۔ غذا کو جزو
بدن بنانے والی قوت۔
الهَضَامُومُ: کھانے کو ہضم کرنے والی دوا۔
اپنے مال کو خرچ کرنے والا۔ شیر۔
الهَضَامُ: اسم مبالغہ۔ کھانے کو ہضم کرنے
والی دوا۔
الهَضْمُ: مہس۔ غذا کا جزو بدن ہونا۔
الهَضْمُ وَالهِضْمُ: پست زمین۔ بطن وادی
ج أَهْضَامٌ وَهَضُومٌ (.....) وَالهِضْمُ
وَالهِضْمَةُ: بخور کی ایک قسم۔
الهَضُومُ: غذا کو ہضم کرنے والی چیز۔ بِنْدٌ
هَضُومٌ: فیاض ہاتھ۔ ج هَضْمٌ اور کہا جاتا
ہے "فَيَسَانُ هَضْمٌ" خرچ کرنے والے
جوان۔ "وَرَجُلٌ هَضُومٌ الشَّيْءُ" قسط کے
زمانے میں خرچ کرنے والا مرد۔
الهَضِيمُ: توڑا ہوا۔ امْرَأَةٌ هَضِيمٌ: پتلی کمر
والی عورت۔ بَطْنٌ هَضِيمٌ: پتلا پیٹ۔ قَصْبَةٌ
هَضِيمٌ: بانسری۔
الهَضِيمَةُ: ظلم۔ غصہ۔ کھانا جو میت کے بعد
کھلایا جائے۔ ج هَضَامٌ.
الْأَهْضَامُ: موٹے دانتوں والا۔ مَوْتٌ:
هَضْمَاءُ ج هَضْمٌ. وَأَهْضَمُ الْكُشْحِينَ:
پتلے پہلوؤں والا۔
المَهْضُومَةُ: خشک اور بان سے مرکب ایک
خوشبو۔ قَصْبَةٌ مَهْضُومَةٌ: بانسری۔ کہا جاتا
ہے "زَائِنَةُ مَهْضَمًا" میں نے اس کو غمزہ
دیکھا۔
هَضَاةٌ مَهْضَاةٌ: بیوقوف سمجھنا۔ حقیر جاننا۔
الهَضَاةُ: گیسو۔ گدھی۔
الْأَهْضَاءُ: لوگوں کی جماعت۔

ھَطْر (ض) ھَطْرًا الْكَلْبُ: کڑی سے مار ڈالنا مارنا۔

تَهَطَّرَتِ الْبُنَى: دیران ہونا۔ گرنا۔ تَهَطَّرَ الرَّجُلُ: ذلیل ہونا۔

الھَطْرَةُ: اسم مرآة۔ غنی کے سامنے سوال کے وقت فقیر کی ذلت۔

تَهَطَّرَسَ الرَّجُلُ: چمک چمک کر چلنا۔

ھَطْع (ف) ھَطْعًا وَھَطْوًا: ڈرتے ہوئے جلدی پیش قدمی کرنا۔ ایک ہی طرف تھکنگی لگانا۔

أھَطَع: گردن اٹھانا اور سر جھکانا۔ فسی السیر: ڈر سے جلدی چلنا۔

اسْتَهَطَعَ الْبَعِيرُ فِي سَبْرِهِ: اُونٹ کا دوڑنا۔ الھَطِيعُ: کشادہ راستہ۔

نَاقَةُ ھَطْعِي: تیز روانگی۔ الھَطِيعُ: ذلت اور عاجزی سے ایک ہی طرف نظر جمانے والا۔

ھَطْف (ض) ھَطْفًا الرَّاعِي: دوہنا۔ السَّمَاءُ بِرَسَاتٍ۔

الھَطْفُ: بہت بارش۔ ھَطَل (ض) ھَطَلًا وَھَطَلَاتًا وَتَهَطَّلًا

الْمَطَرُ: متفرق طریقہ سے بڑی بڑی بوندوں والی لگاتار بارش ہونا۔ صفت مذکر

ھاطل صفت مؤنث ھاطلة ج ھَطَل..... الجَزَى الْقَرْسُ: پسینہ بہانا۔ ھَطَلَتِ السَّاقَةُ: اُونٹنی کا آہستہ چال چلنا۔ ھَطَل السَّرْجُلُ: اپنی ضرورت سے پھیل چل کر

جانا۔ ھَطَلَتِ الْغَيْثُ بِالذَّمْعِ: آسُ بہانا۔ تَهَطَّلَ الْمَطَرُ: بڑی بوندوں والی لگاتار

بارش ہونا۔ تَهَاتَلُوا عَلَي كَذَا: ایک دوسرے کے پیچھے آنا۔

الھاطل: فاعل مخبر بہت بھتیجی۔ الھَطَالُ مِنَ الْمَطَرِ وَالشَّحَابِ: زور سے بڑی بوندوں سے برسنے والی بارش۔

الھَطْلُ: مصل۔ لگاتار آہستہ بارش۔ تھکن۔ الھَطْلُ: بھیڑ یا۔ چور۔ بیوقوف۔

دَيْمَةٌ ھَطْلٌ: لگاتار بارش۔

الھَطْلُ: بڑی بوندوں کی متفرق لگاتار بارش۔ کہا جاتا ہے "مَطَرٌ ھَطْلٌ وَسَحَابٌ

ھَطْلٌ" کہا جاتا ہے دَيْمَةٌ ھَطْلَاءٌ: بڑی بوندوں کی متفرق لگاتار بارش اور "سَحَابٌ

أھَطْلٌ" نہیں بولا جاتا۔ جس طرح "قَرْسٌ وَرَوْعَاءٌ" تو کہتے ہیں مگر نہ کر کیلئے "أَرْوَعٌ" نہیں کہتے۔ "أَمْرًا حَسَنًا" تو بولتے ہیں مگر مرد کو "أَحْسَنُ" نہیں کہتے۔

نَاقَةُ ھَطْلِي: آہستہ روانگی۔ کہا جاتا ہے "مَشَتْ الظَّنَاءُ ھَطْلِي" یعنی ہرنیاں آہستہ چلیں۔ اِبِلٌ ھَطْلِي وَھَطْلِي: بغیر ساربان کے چھوٹے ہوئے اونٹ۔

الھَيْطَلُ: لومڑی۔ الھَيْطَلُ: غازیوں کی قبیل جماعت۔ ماوراء النہر کے چند شہروں کا نام۔

تُرْكُوں یا ہندوستانوں کی ایک قوم ج ھَيَاطِلٌ وَھَيَاطِلَةٌ۔ الھَيْطَلَةُ: پتیل یا تانبے کی دھبھی (دھیل)

ھَطْلَسَ الشَّى: سارا لے لینا۔ تَهَطَّلَسَ اللَّصُّ: چور کا حیلہ و فریب کرنا۔

السَّرْمِيضُ مِنَ عِلَّتِهِ: مریض کا بیماری سے افاقہ پانا۔ صحت یاب ہونا۔

الھَطْلَسُ وَالھَطْلَسُ: بٹ مار۔ چور۔ بھیڑ یا۔ بڑا فکر۔

ھَطَهَطَ الْقَرْسُ: گھوڑے کا ہنہانا۔ السَّرْجُلُ تَمِيزٌ چلنا۔ فِي الْعَمَلِ: جلدی کرنا۔

الھَطَّاهِطُ: گھوڑا۔ ھَطَّ يَهْطُو ھَطْوًا بَكْدًا: پھینکنا۔ الھَطْيُ: پچھاڑ۔ سخت مار۔

ھَع (ن) ھَعًا وَھَعَةً: قے کرنا۔ ھَعْت (ض) ھَعًا وَھَفِيئًا الرَّيْحُ: ہوا کا

سائیں سائیں کرنا۔ ھَفْتُ السَّرْجُلُ: تیز چلنا۔ الشَّى: سبک اور چمکدار ہونا۔

اِھْتَفَّ السَّرَابُ: سراب کا چمکانا۔ اِھْتَفَّتْ اذُنُهُ: کان کا سائیں سائیں کرنا۔ الھَفْتُ: کھیتی جس کے کانٹے میں تاخیر ہو

جانے اور اس کے دانے ٹھہر جائیں۔ چھوٹی مچھلیاں۔ پانی کے بڑے بڑے کالے

کپڑے۔ واحد ھَفَّةٌ وَالھَفْتُ: ہلکا پھلکا مرد۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ ھَفٌّ" کم شہد یا بے

شہد کا چھت۔ ہر ہلکی چیز جس کے جوف میں کچھ نہ ہو۔ سَحَابٌ ھَفٌّ: پتلا بے پانی کا

بادل۔ کہا جاتا ہے "عَمَالِي بَيْتِكَ ھَفَّةٌ وَلَا سَفَّةٌ" یعنی تمہارے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں۔ کہا جاتا ہے "ھَفَّتْ ھَافَةٌ مِنَ النَّاسِ" قحط سالی کی وجہ سے لوگوں کی

جماعت آگئی۔ الھَفَّافُ: چمکدار۔ مِنَ الِاجْتِنَاعِ: اڑنے میں ہلکا۔ مِنَ الْقُمْصِ: تپتی شفاف تپس۔ مِنَ السُّخْمِ: سبک و چست۔ مِنَ الظَّلَالِ: سمجھنا ساریہ اور کہا جاتا ہے "رَجُلٌ ھَفَّافٌ الْقَمِيصُ" ہلکا پھلکا مرد۔

الھَفَّافَةُ الھَفَّافُ: کا مَونٹ۔ رِيحٌ ھَفَّافَةٌ: خوشگوار یا تیز چلنے والی ہوا۔ الھَفَّانُ: نشان قدم۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ عَلَي ھَفَّانِهِ" وہ اس کے نشان قدم پر آیا۔

جَارِنَةٌ مَهْفُفَةٌ: تپتی کروالی لڑکی۔ ھَفْتُ (ض) ھَفْفًا وَھَفَاتًا الشَّى: سخت کی

وجہ سے اڑنا۔ پست ہونا۔ باریک ہونا۔ الرَّجُلُ بِلَا سَوْجٍ سَجِيءٌ بَهِتٌ بُولَانًا۔ تَهَاتَفَتْ عَلَي الشَّى: لگاتار گرنا (اکثر اس کا استعمال شرم میں ہوتا ہے)۔ اَلْفَرَّاشُ عَلَي السَّارِ: پروانہ کا آگ میں گرنا۔

النَّاسُ عَلَي الْمَاءِ: جھوم کرنا۔ الْقَوْمُ: مر کر گرنا۔ السُّوبُ: کپڑے کا بوسیدہ ہو کر کٹڑے کٹڑے ہونا۔

اِنْهَفَّتِ الشَّى: پست ہونا۔ ذلیل ہونا۔ الھَفَاتُ: بے وقوف۔ الھَفْتُ: مصل۔ پست زمین۔ بہت بیوقوفی۔ کسی چیز کا کٹڑے کٹڑے ہو کر گرنا۔ الھَفْتُ مِنَ الْمَطَرِ: جلدی برسنے والی بارش۔ مِنَ الْكَلَامِ: بلا سوج و بھج کے بہت گفتگو۔ الھَفِيئَةُ مِنَ النَّاسِ: بھوک یا سختی کے مارے

ہوئے لوگ۔ المہفوت: حیران۔ تہفک: اضطراب کے ساتھ ست چال چلنا۔ المہفک: نا۔ اضطراب کے ساتھ ست چال چلنے والا (.....) والمہفک: بہت غلطی اور گڑبڑی کرنے والا۔ ہففہفف ہففہففہ الرُّجُلُ: لاغرا تمام ونازک ہونا..... الشی: بلانا۔ تہففہفف الرُّجُلُ: لاغرا تمام ونازک ہونا۔ ظُلُّ ہففہفف: مخنداسایہ جس میں ہوا چل رہی ہو۔ الہففیاف: پتلے پیٹ والا۔ پیاسا..... من الفمُص وَالْأَجْبِحَة: پتلا وشفاف۔ ظُلُّ ہففیاف: مخنداسایہ جس میں ہوا چل رہی ہو۔ عرْفَة ہففیاف: سایہ دار مخنداجمر وک۔ المہففہفف: پتلے پیٹ باریک کمر والا مونت مہففہففہ۔ ہففایففہفف ہففوا و ہففوة و ہففوانا: تیز دوڑنا..... الطَّائِرُ: پر پھڑ پھڑانا اور اڑنا..... الرُّجُلُ: پھسلنا۔ بھوکا ہونا۔ ہففٹ تہففو ہففو و ہففو الریثة او الصوفة فی الہواء: پر یا اون کا ادھر ادھر اڑنا..... الریخ بالصوفة: ہوا کا اون کو ادھر ادھر اڑانا۔ ہفا الفواذ: دل کا دھڑکنا فریفت ہونا..... فلان: اوچھا ہونا۔ ہفا الظلم: شتر مرغ کا دوڑنا اور کہا جاتا ہے "ہفا القلب من الحزن او من الطرب" دل غم سے پرانگدہ ہوا یا خوشی سے قابو میں نہیں رہا۔ ہفا ہفا مہفا ہفا: خواہش کی طرف مائل کرنا۔ الہافی: نا۔ بھوکا۔ الہافیة: الہافی: کامونت ج ہوا فب ہوا فی الابل: گم شدہ اونٹ۔ الہفا: بارش جو بھی بر سے بھی رک جائے۔ الہفاء: نطلی۔ لغزش۔ الہفاة: بارش۔ روجل ہفاة: بیوقوف مرد۔	الہفوة: لغزش ج ہفوات۔ الاهفاء: بیوقوف لوگ۔ ہقق (ض) ہققا الرُّجُلُ: بھاگنا۔ ہقق (ف) ہققا الفرس: گھوڑے کو داغ دینا۔ تہفف الرُّجُلُ عَلینا: نادانی برتنا۔ تکبر کرنا۔ فعل فحج کار تکاب کرنا۔ تہقق: اوندرھا ہونا۔ انہقق الرُّجُلُ: سخت بھوکا ہونا۔ انہققا: باز رکھنا۔ منع کرنا۔ کہا جاتا ہے "انہقق فلانا عرقی سوء" فلاں کو بدامالی نے عزت و شرافت تک جینچنے سے روک دیا "انہققب الحشی فلانا" ایک دن ناغہ دے کر بخارا نا۔ انہقق الشی فلانا: دوبارہ لوٹ کر آنا۔ انہقق لونه: خوف یا گھبراہٹ سے رنگ بدل جانا۔ الہققاع: غم یا بیماری کی وجہ سے غفلت۔ الہقق: لاپٹی۔ مونت ہققا۔ الہققا: ہقا۔ کا اسم مرہ۔ جوزا کے اوپر تین روشن ستارے جو دو بگدان کے پایہ کے مانند ایک دوسرے سے قریب ہیں۔ الہققا: گھوڑے کے سینے کے وسط میں دائرہ۔ الہققا: لوگوں کے درمیان بہت قریک لگانے والا یا لینے والا۔ الہققا: تلوار کی جھکار۔ تلوار کی جھکار کی نقل۔ کہا جاتا ہے "نمعت للسیوف ہیقا" میں نے تلواروں کی جھکار سنی۔ آواز سننے کے لئے خشک چیز کو خشک چیز پر مارنا۔ یا لوہے کو پتھر سے مارنا۔ المہققوع: منع..... من الخیل: سینے کے وسط میں دائرہ رکھنے والا گھوڑا۔ الہقاق: چوہا۔ الہققل: جو ان شتر مرغ۔ لمبا بیوقوف۔ مونت ہققا۔ الہقیل: بھوکا۔ الہقیل: جو ان شتر مرغ۔ گوہ۔	الہیقلة: ایک قسم کی چال۔ کہا جاتا ہے "انخذ یمشی الہیقلة"۔ ہقیم (س) ہقسما: بہت بھوکا ہونا۔ صفت ہقیم: بہت کھانا اور بدیمشی نہ ہونا۔ تہققم: مغلوب کرنا۔ تہققم الطعام: پے در پے بڑے بڑے لقمے لگنا۔ الہققم: سمندر۔ بہت کھانے والا مرد۔ الہیقم: وسیع سمندر۔ سمندر کا شور۔ ہقی ینہقی ہققا: بکواس کرنا اور کہا جاتا ہے "فلان ینہقی بفلان" فلاں فلاں کے ساتھ بک بک کرتا ہے..... فلانسا: گالی دینا..... فواذہ: دل پرانگدہ ہونا۔ انہقاہ اہقاہ: خراب کرنا۔ ہک (ن) ہکنا: گوز کرنا..... الطائیر: پرندہ کا بیٹ کرنا..... النعام: شتر مرغ کا پانچا نہ کرنا..... الشی: پینا۔ صفت مغولی مہکوک و مہکبک۔ ہکنا بالریخ: پیاز پیزہ مارنا۔ ہکنا بالسیف: تلوار مارنا۔ ہکنا البیضاء فلانا: مت کرنا..... اللبن: دودھ نکالنا..... فلانسا: لاغر کرنا..... الشجر الخوق: بڑھی کا سوراخ کو کشادہ کرنا..... العجاریة: بہت جماع کرنا۔ ہکنا البئر: کنوئیں کا گر جانا۔ ہک الشی: گرایا جانا۔ تہک الرُّجُلُ: مضطرب ہونا۔ الانفی: قریب الولادہ ہونے کی وجہ سے تھن کا بڑا ہونا۔ انہک البعیر: بیٹھنے کے وقت زمین سے چمٹنا..... الرُّجُلُ: مت ہونا۔ انہک البئر: کنوئیں کا گرنا۔ کہا جاتا ہے "نسا ینہک یفعل کذا" وہ ہمیشہ ایسا کرتا رہا۔ الہک: مصل۔ فاسد العقل ج ہککا و اہکاک: سخت بارش۔ الہکوک: ہنسی مذاق کرنے والا۔ کمزور کینہ۔ انہک ہاک: انتہائی بیوقوف۔ کہا جاتا ہے "روجل ہکاک بالکلام" غلط کام کو صحیح سمجھ
---	--	---

کر بولنے والا۔

الہنکوک: مونا۔ ہنسی مذاق کرنے والا۔ سخت جگہ اور بقول بعض نرم جگہ۔

الہنکیک: پیا ہوا۔ محنت۔

المنہکوک: مفتح۔ کلام میں ہنسی مذاق کرنے والا۔ مسخرا۔

المنہکعة: دشواری سے بچنے والی عورت۔

ہنکب (ض) ہنکیابہ: ہنکھا کرنا۔

ہنکد علی غریبہ: قرض دار پختی کرنا۔

ہنکز (ض) و ہنکوز (س) ہنکزا و ہنکزا و ہنکزا من کثلا: سخت متعجب ہونا۔

ہنکوز (س) ہنکوزا و ہنکوزا: اونگھنا۔

تہنکوز: تعجب کرنا۔ حیران ہونا۔

الہنکوز: متعجب (.....) و الہنکوز او گھنے والا۔ کہا جاتا ہے ما فیہ منہکوزا او منہکوزة: اس میں کوئی تعجب نہیں۔

ہنکع (ف) ہنکوعا: ٹھہرنا۔ مطمئن ہونا۔

ہنکعت البقر تحت الشجر: سخت گرمی میں درخت کے نیچے سایہ لینا۔ السرجل: اقامت کرنا۔ کہا جاتا ہے "ذہب فلان فما یلذی ایں سگع و ایں ہکع" فلاں گیا نہیں معلوم ہے کس طرف گیا اور کہاں اقامت کی۔ ہکع اللیل: تاریکی پھیلانا۔

..... فلان بالقوم والی القوم: شام ہونے کے بعد قوم کے پاس واپس آنا۔ السرجل: غم یا غصہ سے سر جھکانا۔ السی الازض: اوندھا ہونا۔ عظمتہ: درستی کے بعد ٹوٹنا۔

ہنکع (س) ہنکعا و ہنکع: مطیع ہونا۔ گھبرانا۔ عاجزی کرنا۔

الہنکاع: کھانسی۔ تمکین کے بعد کی نیند۔

الہنکوع: درخت کے نیچے سایہ لینے والی گایوں کا ریوڑ۔

الہنکعة: بیوقوف۔

ہنکل تہکیلا الجحضان او المرأة: گھوڑے یا عورت کا اٹھلاتے ہوئے چلنا۔

تہاکل القوم: کسی معاملہ میں جھگڑا کرنا۔

ہنکل الزرع: جھتی کا بڑھنا اور لمبا ہونا۔

الہنکسل: لمبی اور بڑی نباتات یا درخت واحد ہنکلة: بلند عمارت۔ مونا (ہر جاندار) گر جائے قربان گاہ۔ صورت۔ پیکر۔ مجسمہ۔

رج ہنکجل: فرس ہنکل: بلند گھوڑا۔

ہنکم تہکیما فلانا و لفلان: کسی کے لئے گانا۔

تہنکمت البقر و نحوھا: کٹوئیں کا گرنا۔

تہنکم فلانا و بفلان: ہنکھا کرنا۔ زیندا: پیانے نیزہ مارنا۔ السرجل: جھوٹی مغرور اند چال چلنا اور ہر چیز میں مقدار سے بڑھ جانا۔ تہنکم علی فلان: سخت غضبناک ہونا۔ علی الامر الفایت: نادم ہونا۔

المنظر: ناقابل برداشت بارش ہونا۔

فلان: گانا۔ لفلان: کسی کیلئے گانا۔

بفلان: بہت یاد کرنا۔

الہنکم: الایمنی امور میں چھٹنے والا۔ شریر۔ الاہکومة: ہنکھا۔ استہزاء۔

المنہکیم و المنہکیم: مغرور۔

تہنکن علی الامر الفایت: نادم ہونا۔ (ہنکا) ہنکاہا مہنکاہا: اپنی عقل کو عا جزو ناکام سمجھنا۔

الاہکاء: حیران لوگ۔

ہل: حرف استفہام بمعنی کیا جیسے "ہل طلعت النہار" کیا دن نکل آیا اور "ہل نسبت ایجابیہ کیلئے مخصوص ہے جیسے "ہل قام زیند" اور "ہل لسم تقم زیند" نہیں کہا جاتا اور اگر نسبت سکنز سے استفہام مقصود ہو تو ہمزہ لاتے ہیں اور ہل: اپنے اسم پر بھی داخل نہیں ہوتا جس کے بعد فعل ہو اسی لئے "ہل قام زیند" اور "ہل زیند قائم" کہنا تو جائز ہے مگر "ہل زیند قائم" کہنا جائز نہیں۔

اور ہل: جملہ شرطیہ پر بھی داخل نہیں ہوتا اس وجہ سے کہ اس میں ایجاب و نفی دونوں کا

احتمال ہے اور اس جملہ پر بھی داخل نہیں ہوتا جس پر ان حرف تحقیق داخل ہو اس لئے کہ ان تقریر واقع کے لئے آتا ہے اور ہل استفہام

کیلئے اور ان دونوں میں منافات ہے۔ اسی وجہ سے "ہل ان قام زیند تقم" اور "ہل ان زیندا قائم" کہنا جائز نہیں۔ بخلاف ہمزہ کے کہ یہ استفہام میں اصل ہے اور اس میں بڑی وسعت ہے۔

اور ہل: جب مضارع پر داخل ہو تو استقبال کے لئے خاص کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ہل تذهب الان: کہنا جائز نہیں۔

ہل (ن) ہلا المنظر: زور سے برسنا۔

الہلال: نیا چاند نکلنا۔ ہل الشهر: مہینہ شروع ہونا۔ السرجل: خوش ہونا۔ چلانا۔

ہل تہیللا: تسبیح پڑھنا۔ ہیللنا (عبرانی کلمہ ہے جس کے معنی ہیں "پروردگار کی تسبیح پڑھو"۔ کہنا (ذیل) لا الہ الا اللہ کہنا اور یہ ہیللنا سے ماخوذ ہے جیسے بسم اللہ پر ہللا اور حوقلة لا حول ولا قوۃ الا باللہ: کہا جاتا ہے "سیح فلان و ہللا" فلاں نے تسبیح پڑھی اور لا الہ الا اللہ کہا۔

وہل السرجل: بزدل ہونا۔ ہماگنا: غن قریبہ: پیچھے ہٹنا۔ عن شیمہ: گالی دینے سے رک جانا۔ ہٹ جانا۔ الکتاب: لکھنا۔

ہال ہلالا و مہاللة الاجیر: درماہ اجرت مقرر کرنا۔ تم کہتے ہو "تکانزینہ مہاللة" یعنی ایک چاند سے دوسرے چاند تک جیسا کہ "مشاہرۃ" یعنی ایک مہینہ سے دوسرے مہینہ تک۔

اہل الہلال: نیا چاند نکلنا۔ الشهر: مہینہ شروع ہونا۔ اہل القوم الہلال: چاند دیکھتے وقت آواز بلند کرنا۔ الصبی: بچے کا رونے میں آواز بلند کرنا۔ السرجل: نیا چاند دیکھنا۔ السیف بفلان: تلوار کا کاٹنا۔ العطشان: پیاسے کا تھوک جمع ہونے کے لئے زبان کو تالو سے ملانا۔ اللہ: السحاب: برساتنا۔ الشهر: مہینہ کا چاند دیکھنا۔ السیبی: تلبیہ کے وقت آواز بلند کرنا۔ فلان یذکر اللہ: کسی نعمت یا کسی

عجیب چیز کو دیکھ کر اللہ کے ذکر میں آواز بلند کرنا۔ کہا جاتا ہے "أَهْلٌ بِالتَّسْمِيَةِ عَلَى الدُّبْحَةِ" اس نے فجر پر اللہ کا نام لیا۔
أَهْلُ الْهَيْلَالِ: نیا چاند نکلنا..... الشَّهْرُ: مہینہ شروع ہوتا۔

تَهَلَّلَ الْوُجْهَ أَوْ السَّحَابَ: چمک اٹھنا۔
..... فَلَانَ: خوشی سے دکتے ہوئے چہرے والا ہونا۔ تَهَلَّلَتِ الْعَيْنُ: آنسو بہانا۔
تَهَلَّلْتُ دُمُوعَهُ: آنسو بہنا۔

إِنْهَلَّ الْمَطْرُ: زور سے آواز کے ساتھ بارش ہونا۔ إِنْهَلَّتِ الْعَيْنُ: آنسو بہانا۔
..... السَّمَاءَ بِالْمَطَرِ: برساتا۔

إِنْهَلَّ الْوُجْهَ وَالسَّحَابَ: چمک اٹھنا۔
الرَّجُلُ: ہنسنے میں دانت ظاہر کرنا۔
الْمَطْرُ: زور سے آواز کے ساتھ برساتا۔

إِسْتَهَلَّ الْمَطْرُ: زور سے آواز کے ساتھ برساتا۔
..... السَّمَاءَ: جبلی بارش برساتا۔
السَّمُومُ الْهَيْلَالُ: نیا چاند دیکھنا..... الشَّهْرُ: مہینہ شروع ہونا۔ الشَّهْرُ: مہینہ کا نیا چاند دیکھنا۔
..... الْوُجْهَ: خوشی سے دمک اٹھنا۔

الصَّبِيُّ: پیدائش کے وقت چلانا اور ایسا ہی ہر بولنے والے کے آواز بلند کرنے کو
إِسْتَهَلَّ الْعَيْنُ: آنسو بہانا۔

إِسْتَهَلَّ الْهَيْلَالُ: نیا چاند نکلنا۔ اِسْتَهَلَّ السَّيْفُ: سونتا جاتا۔

الْهَيْلَالُ: مصدر هَالٌ کا۔ نیا چاند۔ شروع مہینہ کی دو راتوں یا تین راتوں یا سات راتوں کے چاند کو ہلال کہتے ہیں اور مہینہ کی آخری دو راتوں چھبیسویں اور ستائیسویں کے چاند کو بھی اور ان کے علاوہ کے چاند کو قمر کہتے ہیں۔

وَالْهَيْلَالُ عِنْدَ أَهْلِ الْهَيْسَةِ: پہلی رات کا چاند الھلال: تھوڑا پانی۔ شکار کو زخمی کرنے کا لوبا۔ سانپ اور بقول بعض زسانپ۔ سانپ کی کینچلی۔ جوتے کا تسمہ۔ دبلا اونٹ۔ غبار۔ ناخن کی جڑ کی سفید۔ اونٹ کا نشان۔

خو بصورت لڑکا۔ چکی وغیرہ کا کنارہ جبکہ ٹوٹ جائے۔ بوجھار۔ پہلی بارش۔ رَجْ أَهْلَةٌ أَوْ أَهَالِيلُ (نادر)
الْأَهَالِيلُ: بارشیں۔ اس کے لئے واحد نہیں یا اس کا واحد اهلول ہے۔

الْهَيْلَالُ: پہلی بارش۔
الْهَيْلُ: ہمس۔ باریک بال۔ کپڑا۔

الْهَيْلُ: نموداری۔ مانو۔ کہا جاتا ہے "أَتَيْتُهُ فِى هَيْلِ الشَّهْرِ" میں اس کے پاس نئے چاند طلوع ہونے کے وقت آیا۔

الْهَيْلُ: خوف۔ ڈر۔ کہا جاتا ہے "هَلَكَ فَلَانٌ هَلًّا" فلاں خوف کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ پہلی بارش۔ کڑی کا جالا۔ بارشیں۔ واحد هَلَّةٌ۔

هَلًّا: کلمہ تخصیص و تدریم ہے۔ مرکب ہے هَلٌّ وَلَا ءَ۔ اگر ماضی پر داخل ہو تو ترک فعل پر ملامت کے لئے جیسے هَلَّا آمَنْتَ یعنی تم ایمان کیوں نہیں لائے اور اگر مضارع پر داخل ہو تو براہیجتہ کرنے کیلئے جیسے "هَلَّا تَوْبِن" تم ایمان کیوں نہیں لاتے ہو۔

الْهَيْلِيُّ: خوشی جو عجم کے بعد حاصل ہو۔
الْهَيْلَةُ هَيْلٌ: کا اسم مرۃ۔ هَيْلٌ: کا واحد۔ چراغ دان اور کہا جاتا ہے "أَتَيْتُهُ فِى هَيْلَةِ الْقَمَرِ" میں اس کے پاس چاند کے طلوع کے وقت آیا (وَمَا أَصَابَ هَيْلَةً) اس نے کچھ نہیں پایا۔

الْهَيْلُ: بارشیں۔ واحد هَيْلَةٌ اور کہا جاتا ہے "جَاءَ نَا فَلَانَ فَلَمْ يَأْتِنَا بِهِلَةٌ وَلَا بَلْبَةٌ" فلاں ہمارے پاس آیا اور کچھ نہیں لایا۔ کہا جاتا ہے "ذَهَبَ بِهِلْيَانٌ وَبِلْدَى هَيْلِيَانٌ" وہ گیا اور نہیں معلوم کہاں گیا ہے۔

الْهَيْلِيَّةُ: زمیں جس پر بارش ہوئی ہو اور اردگرد بارش نہ ہوئی ہو۔

السَّهْلُ: فا۔ وہ شخص جو اپنے ہمس پر حملہ کرے پھر بزدلی کی وجہ سے ہٹ جائے۔ اِبِلٌ مَهْلِلَةٌ: دبے اور جھکے ہوئے اونٹ۔ الْمَهْلِيلُ: جھکا ہوا۔

هَلْبَةٌ (ض) هَلْبًا: کسی کے بال اکھیرنا هَلْبٌ ذَنْبُ الْقَرَسِ: گھوڑے کی دم کو کاٹنا هَلْبَتِ السَّمَاءِ الْقَوْمُ: تر کرنا۔ یا لگا تار برساتا۔
..... الْقَرَسُ: گھوڑے کا لگا تار دوڑنا۔

فَلَانَ الْقَوْمُ بِلْسَانِهِ: جھو کرنا۔ گالی دینا۔ هَلِبٌ (س) هَلْبًا: بہت بالوں والا ہونا۔

أَهْلَبَ الْقَرَسُ: گھوڑے کا لگا تار دوڑنا۔

أَهْلَبَتِ السَّمَاءُ الْقَوْمُ: تر کرنا۔

تَهَلَّبَ وَإِنْهَلَّبَ الشَّعْرُ: بال اکھڑا ہوا ہونا۔

إِفْتَلَبَ السَّيْفُ مِنْ عَمْدِهِ: تلوار کو میاں سے سونتا۔

لَيْلَةٌ هَالِيَةٌ: بارش والی رات۔

الْهَلْبُ: بال۔ پلکیں اور بعض موٹی پلکیں اور بقول بعض دم کے بال اور بقول بعض سور کے بال۔ واحد هَلْبَةٌ۔

الْهَلْبُ: بہت بالوں والا۔

الْأَهْلَبُ: بہت بالوں والا۔ بے بال والا۔

ذَنْبُ أَهْلَبٍ: کٹی ہوئی دم۔ عَامٌ أَهْلَبٌ: بہت بارش والا سال۔ سرسبز سال۔ عیش

أَهْلَبٌ: کشادہ آسودہ زندگی۔

الْهَيْلَاءُ الْأَهْلَبُ: کامونٹ۔ رَقَبَةُ هَلْبَاءَ: بہت بالوں والی گردن۔ کہا جاتا ہے "وَقَعْنَا فِى هَلْبَةِ هَلْبَاءَ" ہم بڑی مصیبت میں پڑ گئے۔

الْهَيْلَةُ هَلْبٌ: کا واحد۔ ہیزو۔ ایک ستارہ۔

هَلْبَةُ الشَّهْرِ: مہینے کا آخر۔ هَلْبَةُ الشَّيْءِ أَوْ الْوَمَانُ: جائزے یا زمانے کی تختی۔

الْهَيْلَابُ: اسم مبالغہ۔ بہت بھوکرنے والا۔ بارش کے ساتھ ٹھنڈی ہوا۔ عَامٌ هَلَابٌ: بہت بارش والا سال۔ يَوْمٌ هَلَابٌ: ہو اور بارش کا دن۔ الْهَيْلَابُ وَالْهَيْلِيَّةُ وَالْمَهْلَابُ: جنوری کے مہینے میں بہت ٹھنڈے چند دن۔

الْهَيْلَانَةُ: بارش کے ساتھ ٹھنڈی ہوا۔ الْأَهْلُوبُ: فن۔ طریقہ۔ اسلوب۔ جِ الْهَالِيْبُ:

الْمُهْلَسَةُ: دودھ پے ہوئے چاول اور چینی کا
 طوطہ۔ (تیسرے)

هَلْبَةُ الشَّيْءِ او الزَّمَانِ: جاڑے یا زمانہ کی
 شدت۔

فَرَسٌ مُهْلَوْبٌ: دم کٹا گھوڑا۔

المُهْلَبُ: جھوکیا ہوا۔

هَلَّتْ (ان) هَلَّتَا الشَّيْءُ: چھیانا۔

إِنْهَلَّتْ: چھلنا اور کہا جاتا ہے "انْهَلَّتْ
 يَغْدُو" وہ دوڑتا ہوا کھسک گیا۔

الهَلَاثُ: ڈھیلا پن۔

الهَلْفِيُّ والهَلْفَاءُ والهَلْفَاءُ والهَلْفَاءُ
 والهَلْفَاءُ والهَلْفَاءُ: شور مچانے والی
 جماعت۔ الهَلْفَاءُ والهَلْفَاءُ: ڈھیلا پن۔

هَلَجٌ (ض) هَلَجًا: ناقابل یقین خبریں
 دینا۔

أَهْلَجَ الشَّيْءُ: پوشیدہ کرنا۔

الهَلَجُ: خوب بائے پریشاں دیکھنے والا۔

الهَلَجُ: مص۔ ناقابل یقین خبریں۔ ہلکی نیند
 (والهَلَجُ) خواہمائے پریشاں۔

الهَلَجُ: ایک خاردار درخت۔

تَهَلَّزَ الرَّجُلُ: دامن سینٹا۔ چوکس ہونا۔

چاق و چوبند ہونا۔

هَلَسَتْ (ض) هَلَسَا الْمَرْضُ: لاغر کر دینا۔

هَلَسَ: سل کی بیماری لاحق ہو کر عقل زائل
 ہونا۔ صفت مَهْلُوسٌ۔

هَلَسَ الرَّجُلُ: لاغر ہونا۔

هَالَسَتْ مُهَالَسَةً: چپکے چپکے باتیں کرنا۔

أَهْلَسَ: آہستہ آہستہ ہنسنا۔ الْحَدِيثُ:
 پوشیدہ کرنا۔ اَللّٰهُ فُلَانٌ: چپکے سے کہنا۔۔۔۔۔

الْمَرْضُ: فُلَانًا: گھلا دینا۔

الهَالِسُ: قا۔ دبے پتلے جسم والا۔ ج
 هَوَالِسُ۔

الهَالِسُ: سل کی بیماری۔

الهَلْسُ: مص۔ خیر کثیر۔ ڈبلا پن۔ پتلا پن۔
 سل کی بیماری۔

الهَلْسُ: مرض سے لاغر شدہ لوگ۔ کمزور
 لوگ چاہے مرض سے لاغر نہ ہوں۔

المَهْلُوسُ: مفتح۔ رَجُلٌ مَهْلُوسٌ الْعَقْلُ وَ
 مُهْتَلِسُهُ: مسلوب العقل۔

ظَلَامٌ مُهْلِسٌ: بد ہم اندھیرا۔

هَلَعٌ (س) هَلَعًا: بے صبری سے شور۔ صفت
 هَلَعٌ وَهَلُوعٌ: بھوکا ہونا۔

الهَلْعُ: لاچی۔

الهَالِعُ: فا۔ نَعَامٌ هَالِعٌ: تیز رفتار شتر مرغ۔
 کہا جاتا ہے "نَعَامَةٌ هَالِعَةٌ وَهَالِعٌ" ج
 هُوَالِعٌ شَخٌّ هَالِعٌ: غم انگیز شدت محل۔

الهَلْعُ: غمگین۔

الهَلْعُ: مص۔ (.....) والهَلْعُ والهَلْعَانُ
 مقابلہ کے وقت بزدلی۔

الهَلْعَةُ: جلد گھبرانے والا۔

الهَلُوعُ: گھبرانے والا۔ ڈر پوک۔ لاچی و
 تخیل مصائب پر صبر نہ کر سکنے والا۔

الهَلْيَاغُ: ایک چھوٹا درندہ جانور۔ یا زرتی۔

الهَلُوفُ: بھاری بھر کم سخت بدن والا۔ بڑی
 داڑھی والا۔ بہت بالوں والا۔ گھنی

داڑھی۔ ایر آلود دن جس میں آفتاب نہ
 نکلے۔ بہت اون والا بوڑھا اونٹ۔ جنگلی
 سور۔

الهَلُوفُ: بہت بوڑھا۔ چھوٹا۔

الهَلُوفَةُ: بہت چھوٹا۔ گھنی داڑھی۔ بڑھیا۔

الهَلُوفُ: سخت بدن اور بہت بالوں والا۔

هَلَقٌ (ض) هَلَقًا وَتَهَلَّقُ: جلدی کرنا۔

هَلَقَمَ الشَّيْءُ: ٹھٹھا۔

الهَلْقَامُ: لمبا۔ موٹا۔ شیر۔ چوڑی باجھوں کا
 اونٹ وغیرہ۔ (.....) وَالهَلْقَمُ) بڑا فیاض
 سردار جو لوگوں کی دیت وغیرہ کو اپنے اوپر
 برداشت کر لیتا ہو۔

الهَلْقَامُ وَالهَلْقَمُ وَالهَلْقَامَةُ
 وَالهَلْقَامَةُ الْهَلْقَمُ: بہت کھانے والا۔

الهَلْقَمُ: قوی۔ چوڑی باجھوں والا۔ بڑی
 عورت اور بڑے سمندر کو "بَحْرٌ هَلْقَمٌ" کہتے
 ہیں اس وجہ سے کہ وہ ہر چیز کو نگل لیتا ہے۔

هَلَكٌ (ض ف س) هَلَاكًا وَهَلَاكًا
 وَهَلُوكًا وَتَهْلُوكًا وَهَلَاكًا وَتَهْلَاكًا

بَطْلِيثُ اللَّامِ فِي الْآخِرِينَ: فنا ہونا۔ مرنا۔
 نیست و نابود ہونا (عموماً اس کا استعمال بُرئى
 موت کے لئے ہوتا ہے) (..... هَلَاكًا)
 إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ: لاچی ہونا۔ بہت خواہش مند
 ہونا۔

هَلَكَةٌ وَأَهْلَكَةٌ: فنا کرنا۔ نیست و نابود کرنا۔
 اگر کوئی شخص کسی بڑے کام کو کرے تو اس
 سے "هَلَكْتُ وَأَهْلَكْتُ" کہا جاتا ہے
 "أَهْلَكَ الْمَالُ: بیچنا۔
 تَهْلَكُ فِي مَشِيهٍ: منک کر چلنا۔

فِي الْمَفَاوِزِ: بیابان میں آوارہ و حیران
 پھرتا۔

تَهَالَكَ عَلَى الْفَرَاشِ: بسترے پر گرنا۔۔۔۔۔

فِي مَشِيهٍ: منک کر چلنا۔۔۔۔۔ عَلَى الشَّيْءِ:
 بہت خواہشمند ہونا۔ کہا جاتا ہے "أَسَا
 مُنْهَالِكٌ فِي مُؤَدَّتِكَ" میں تمہاری دوستی
 کا بہت خواہش مند ہوں۔۔۔۔۔ فِي الْأَمْرِ او
 الْعَدُوِّ: کوشش کرنا۔

أَهْلَكَ وَأَهْلَكَ: اپنے آپ کو خطرات
 میں ڈالنا اور کہا جاتا ہے "مَرَّ نَهْلِكُ فِي
 عَدُوِّهِ" وہ گزرا اس حال میں کہ دوڑنے
 میں کوشش کر رہا تھا۔

إِسْتَهْلَكَ: ہلاک کرنا۔ اسْتَهْلَكَ الْمَالُ:
 مال خرچ کرنا۔ ختم کرنا۔۔۔۔۔ فِي الْأَمْرِ:
 جلدی کرتے ہوئے کوشش کرنا۔

الهَالِكُ: فا۔ ج هَلَكِي وَهَلَكُ
 وَهَلَاكٌ وَهَوَالِكٌ (اور یہ شاذ ہے جسے
 فَوَارِسٌ وَنَوَائِكِسُ)

الهَالِكَةُ: الهَالِكُ: کامیاب۔ کامیاب۔ نفس
 حریص۔

الهَالِكِيُّ: اوبار (بالک بن عمرو بن اسد بن
 خزیمہ کی جانب منسوب کہ لو باری کا کام اسی
 نے شروع کیا تھا)

الهَلَكُ وَالهَلَكُ: ہلاکت۔ تم کہتے ہو
 "لَاذْهَبَنَّ فَيَأْتِي هَلَاكٌ وَأَمَّا مَلِكٌ" یعنی
 میں جاؤں گا یا تو تخت نصیب ہوگا یا تخت۔

الهَالُوكُ: سگھیا۔

الْهَلَكُ: قتل سالی کے سال۔ واحد هَلَكَةٌ
مردار کی لاش۔ پہاڑ کی چوٹی اور دامن کا
درمیانی حصہ۔ دو چیزوں کے درمیان کی
فضا۔ گرنے والی چیز۔

الْهَلَكُ: ہلاک ہونے والانفس۔
الْهَلَكَاءُ: ہلاکت۔ تاکید کے لئے هَلَكَةٌ
هَلَكَاءُ بولا جاتا ہے۔

الْهَلَكَةُ: هَلَكُ: کا اسم نوع۔ گرنے والی
ج ہلک کہا جاتا ہے "فَلَاتُ هَلَكَةٌ مِنْ
الْهَلَكِ"

الْهَلَكَةُ: ہلاکت۔ الْهَلَكُ: کا واحد ج
هَلَكَاتُ.

الْهَلَاكُ: فقراء۔ چارہ پانی تلاش کرنے
والے لوگ جو راستہ کھو چکے ہوں۔

الْهَلَكُونَ وَالْهَلَكُونَ: قحط زدہ زمین اگرچہ
پانی اس میں ہو۔ ایسی زمین جس پر ایک
زمانہ دراز سے بارش نہ ہوئی ہو۔

الْهَلُوكُ: بدکار عورت ج هَلُوكُ
التَّهْلُوكَةُ: ہر وہ چیز جس کا انجام ہلاکت ہو۔

التَّهْلُوكُ: ہلاکت۔
أَهْلَكُ النَّاسَ: لوگوں میں زیادہ ہلاک
ہونے والا۔

المُهْتَلِكُ: وہ شخص جس کی تمنا یہ ہو کہ کسی
کا مہمان بنے۔ مفت خورہ۔

المُهْتَلِكُونَ: چارہ پانی تلاش کرنے والے
جو راستہ کھو چکے ہوں۔

المَهْلِكَةُ وَالْمَهْلِكَةُ: ہلاکت کی
جگہ۔ بیابان ج مَهَالِكُ. المَهَالِكُ:

لڑائیاں۔ کہا جاتا ہے "طَرِيقُ مُسْتَهْلِكِ
الْوَرْدِ" دشوار گزار تھکا دینے والا راستہ۔

أَهْلَمُ بِفُلَانٍ: بلانا۔ پکارنا۔
الْهَلْمُ: ذُصِيلًا۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ هَلْمٌ وَ
إِمْرَأَةٌ هَلْمَةٌ"

الْهَلْمُ: هَلْمٌ: کا جواب۔ جب کوئی شخص مطیع
ہو جائے تو کہا کرتے ہیں "جَادَ بِهَلْمِهِ"

الْهَلْمُ: پہاڑی ہرنیاں۔
هَلْمٌ: آؤ۔ لازم ہے اور کبھی متعدی مستعمل

ہوتا ہے۔ جیسے "هَلْمٌ شَهْدَاءُ كُمْ" یعنی
اپنے گواہوں کو حاضر کرو اور یہ اسمائے
افعال میں سے ہے جس میں واحد جمع مذکر
مؤنث سب مساوی ہیں اور اس کی تصریف
اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اس کو فعل قرار
دیتے ہیں اور اس کے آخر میں ضمائر لائق
کرتے ہیں۔ شئی کے لئے هَلْمًا مؤنث کے
لئے هَلْمَتِي جمع مذکر کے لئے هَلْمُوا اور جمع
مؤنث کے لئے هَلْمُنَّ: یہی خیال اکثر
عرب کا ہے اور پہلا صبح ہے۔

اور بھی لام لگایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے هَلْمٌ
لَكَ وَهَلْمٌ لَكُمْ اور کبھی نون ثقیلہ لائق
ہوتا ہے جیسے هَلْمُنَّ يَارَجُلُ وَهَلْمُنَّ
يَا امْرَأَةَ. وَهَلْمَانُ يَارَجُلَانِ وَيَا امْرَأَتَانِ
وَهَلْمُنَّ يَارَجَالٍ وَهَلْمُنَّانِ يَابِسْوَةَ.

الْهَلَامُ: ایک قسم کا کھانا جو کھجڑے کے
گوشت مع پوست کے تیار کیا جاتا ہے۔ سبھا
ج کا شور با جس کو شخڑا کر کے روغن سے
صاف کر دیا گیا ہو۔

الْهَلِيمُ: چپکنے والا۔
الْهَلِيوسُكُوبُ: دور بین۔ هَلِيُو سُوْبُو:

بیلی کو پٹر۔ (یونانی لفظ) الْهَلِيُومُ: ایک گیس
والا عنصر گاڑھا خفیف وزن والا جس کو آگ
نہیں لگتی قدرتی پٹرول کے چشموں سے نکالا
جاتا ہے۔ الْهَلِيُونُ واحد هَلِيُونِيَّةٌ: وہ پودا جس

کے تنے زمین کے اندر ہوتے ہیں ان تنوں کو
بھون کر کھایا جاتا ہے۔ اس کے پھل سرخ اور
خوبصورت ہوتی ہیں۔

الْهَيْلَمَانُ وَالْهَيْلَمَانُ وَالْهَيْلَمَانُ: بہت چیز
اور بقول بعض خیر کثیر۔ کہا جاتا ہے "جَاءَنَا
بِالْهَيْلِ وَالْهَيْلَمَانِ" وہ ہمارے پاس بہت
مال لے کر آیا۔

هَلْمَمُ هَلْمَمَةٌ بِفُلَانٍ: کسی کو هَلْمَمُ کہہ کے
پکارنا۔

هَلْمَلُ النَّسَاجِ الثَّوْبُ: کپڑے کو باریک
بُنا۔ الصَّوْتُ: گلے میں آواز پھرانا۔
الشَّعْرُ: شعر عمدہ بنانا۔ بغیر اصلاح و تہذیب

کے جیسا ہوو یا ہی بناوینا۔

الرَّجُلُ فِي الْأَمْرِ: انتظار کرنا۔ دیر کرنا

الطَّحِينُ: آنے کو باریک چھاننا۔

عَنِ الشَّيْءِ: واپس ہونا۔ لوٹنا۔ بِقَرْبِهِ: بلا
کہہ کے ڈانٹنا اور کہا جاتا ہے "هَلْمَلُ
يُنْذِرُ كُنْ" بمعنی تھکاؤ یُنْذِرُ كُنْ.

الْفَلَاهِلُ وَالْفَلَاهِلُ وَالْفَلَاهِلُ: عمدہ شعریا
باریک کپڑا۔ الْفَلَاهِلُ: بہت اور صاف
پانی۔ الْهَلْمَلُ: خراب بنا ہوا کپڑا۔

الْهَلْمَلُ: برف۔
هَلَالًا مَهْلَالًا: جھگڑا کرنا۔

الْهَالِي. هَالِي: کا مقلوب۔ بمعنی ہولناک۔
هَلَا: گھوڑوں کے لئے کلمہ زجر۔

حَيْهَلًا: دیکھو مادہ ح ی ی۔
الْهَلِيُونُ: ایک قسم کی نرم گھاس ہے جو کھائی

جاتی ہے جس کو فارسی میں مارچوبہ و مار گیاہ
اور ہندی میں ناگدون کہتے ہیں۔ واحد
هَلْيُونَةٌ.

هَمَّ (ن) هَمًّا وَمَهْمَةٌ الْأَمْرُ فَلَاتَا: رنجیدہ
کرنا۔ مَلَمِينُ کرنا۔ الشَّمُّ جَمَمَةٌ:

بیاری کا جسم کو گھلا دینا۔ فَلَاتَا الشَّمُّ:
چربی پگھلانا۔

الشَّمْسُ الشَّلَجُ: آفتاب کا برف کو
پگھلانا۔

اللَّيْنُ: دودھ دو بنانا۔ هَمًّا بِالشَّيْءِ:
ارادہ کرنا۔ چاہنا۔ پختہ ارادہ کرنا اور کہا

جاتا ہے "وَقَعَتِ السُّومَةُ فِي الطَّعَامِ
فَهَمَمْتُ" غلہ میں گھن پڑ گئے اور غلہ کے

گودے کو کھا کر کھوکھا کر دیا۔
هَمَّ (ن) هُمُومَةٌ وَهَمَامَةُ الرَّجُلُ: بہت
بوڑھا ہونا۔

هَمَّتْ (ض) هَمًّا وَهَمِينًا حَشَاشُ
الْأَرْضِ: زمین کے کیڑے کوڑوں کا
ریٹکنا۔

هَمَمَتِ الْمَرْأَةُ فِي رَأْسِ الصَّبِيِّ: لوری
سے سلانا۔ جوں نکالنا۔

أَهَمَّ الشَّيْخُ: بہت بوڑھا ہونا۔ الْإَفْرُ

فَلَانًا رَجِيْدَةً كَرْنَا - غم میں ڈالنا کہا جاتا ہے
"أَهْمَةُ الْأَمْرِ حَتَّى هَمَّةً" اس کو معاملے نے
ٹمکن کیا یہاں تک کہ گھلا دیا۔

تَهَمَّتِ الشَّيْءُ: تلاش کرنا۔ ڈھونڈنا۔

..... رَأْسُهُ: جو میں نکالنا۔

إِنْهَمَّ الشَّيْخُ: بہت بوڑھا ہونا..... الشَّحْمُ
او البُرْدُ: پھلانا۔ گھلانا..... السَّرْفِيُّ قِيسُ
جَبِيْنَةُ: پیسہ بہنا۔ اِنْهَمَّتِ الْبُقُولُ:
ہانڈیوں میں پکا جانا۔

اَهَمَّ الرَّجُلُ: ٹمکن ہونا..... لَمْ يَأْمُرْهُ:
اجتہام کرنا۔

اِسْتَهَمْتُ بِالْأَمْرِ وَفِي الْأَمْرِ: متوجہ کرنا۔
مشغول ہونے کی خواہش کرنا۔ اِسْتَهَمْتُ
فُلَانًا: اُمور قوم میں محنت اٹھانا۔

الْفَهَامَةُ: ہرز ہردار کیزر جیسے سانپ وغیرہ۔
رَجَ هَوَامٌ اور کبھی هَوَامٌ کا اطلاق ان کیزروں
پر بھی ہوتا ہے جو ہرز ہردار نہیں۔ جیسے حدیث
میں ہے "اَيُّوْذِيْنِكَ هَوَامٌ زَائِيْكٌ" کہ
یہاں پر هَوَامٌ زاس سے مراد جو میں ہیں۔

الْهَمَامُ: عالی ہمت بادشاہ۔ بہادر کئی سردار
(مردوں ہی کیلئے مخصوص ہے) شیر..... مِنْ
الْتَّلَجِ او الشَّخْمِ: پھلنے ہوئی برف یا چربی
رَجَ هَمَامٌ.

الْهَمُّ: مص غم رَجَ هَمُوْمٌ: ارادہ۔ جس کا
ارادہ کیا جائے یا جس کے کرنے کی فکر کی
جائے اور کہا جاتا ہے "هَذَا رَجُلٌ هَمِيْكٌ
يَسُرُّ رَجُلِي" یہ شخص تمہارے لئے فلاں شخص
سے کافی ہے۔ "وَهَذَا رَجُلٌ هَمٌ" یعنی یہ
شخص صاحب ہمت ہے۔

الْهَمُّ: بے فرقت رَجَ اَهْمَامٌ: دُ بِلَا تِلَا - قَدْ حُ
هَمٌ: ٹوٹا ہوا پرانا بیالہ۔

الْهَمَامُ: کز زرنے والا آدمی۔ چغل خور۔
الْهَمَّةُ: بے فرقت۔ بہت بڑھیا۔ رَجَ
هَمَاتٌ وَهَمَاتِيْمٌ.

الْهَمَّةُ وَالْهَمَّةُ: ہمت۔ قصد۔ ارادہ۔
خواہش۔ ابتداء عزم۔ عزم قوی۔ کہا
جاتا ہے "لَهُ هَمَّةٌ عَالِيَةٌ وَهُوَ بَعِيْدُ الْهَمَّةِ"

رَجَ هَمَمٌ اور کہا جاتا ہے "هَمُوْرَجُلٌ"
هَمِيْكٌ مِنْ رَجُلٍ" یہ شخص تمہارے لئے
فلاں شخص سے کافی ہے۔

..... سَحَابَةٌ هَمُوْمٌ: بارش برسانے والا
بادل۔ بَشْرٌ هَمُوْمٌ: بہت پانی والا کنواں۔

نَاقَةٌ هَمُوْمٌ: خوش رفتار اونٹنی اور کہا جاتا ہے
"قَصَبٌ هَمُوْمٌ" نزل جس کو ہوا ہلا دے۔

الْهَمِيْمُ: نرم رفتاری۔ سرایت۔ کہا جاتا ہے
"لِلشَّرَابِ هَمِيْمَةٌ فِي الْعِظَامِ" شراب کا اثر
ہڈیوں تک میں ہے..... مِنْ الْمَطِيْرِ: ہلکی
بارش۔

الْهَمِيْمَةُ: چھوٹی چھوٹی بوندوں کی آہستہ
بارش رَجَ هَمَاتِيْمٌ.
التَّهْمِيْمُ: مص۔ ہلکی بارش۔

الْمُهْمَةُ: فاعل۔ شدید معاملہ۔ مشغول کرنے والا
معاملہ۔ رَجَ مَهَامٌ.

الْمُهْمَةُ: مَوْثُ الْمُهْمِ رَجَ مِهْمَاتٍ.
الْمُهْمَاتُ مِنَ الْأُمُوْر: سخت اور اہم امور۔
کہا جاتا ہے "لَا مَهْمَةَ لِي بِذَلِكَ" یعنی
مجھے نہ تو اس کا قصد ہے نہ کروں گا۔

الْمَهْمُوْمُ: مفعول۔ ٹمکن۔ گھلانا ہوا۔
هَمًا يَهْمًا هَمًا الشُّوْبُ: کپڑا کھینچ کر

پھاڑنا۔ بوسیدہ کرنا۔ اَهْمًا الشُّوْبُ: کپڑا
پھاڑنا اور بوسیدہ کرنا۔

اِنْهَمًا وَتَهْمًا الشُّوْبُ: کپڑا پھینا اور بوسیدہ
ہونا۔

الْهَمُّ: پرانا بوسیدہ کپڑا رَجَ اَهْمَاءُ.
هَمَّتْ (ن) هَمَّتَا الشُّرَيْدُ: چکانی سے تر
ہونا۔

اَهَمَّتْ الْكَلَامُ او الضَّحْكُ: آہستہ
آہستہ باتیں کرنا۔ چپکے چپکے ہنسا۔

هَمَجَتْ (ن) هَمَجَا الْاِبِلُ مِنَ الْمَاءِ:
ایک ہی مرتبہ پانی پی کر میرا ہونا۔ صفت
هَوَامِيَجٌ (..... هَمَجَا) بھوکا ہونا۔

اَهْمَجَ الْفَرَسُ: دوڑنے میں کوشش کرنا۔
..... الشَّيْءُ: پوشیدہ کرنا۔

اِهْتَمَجَ الرَّجُلُ: کمزور ہونا..... وَجْهَهُ:

پشردہ ہونا۔

الْهَامِيَجُ: انبوہ جس کا کوئی قائم نہ ہو۔ بے
چرواہے کے ریڑھ۔ بے افسر کے فوج اور
"هَمِيَجٌ هَامِيَجٌ" کا اطلاق کہنے لوگوں پر ہوتا
ہے اور یہ بطور تاکید ہے جیسے "لَيْسَ لِأَنْتَلُ"
میں۔

الْهَمِيَجُ: مص۔ بھوک۔ بد انتظامی۔ ایک قسم
کا بچھر۔ چھوٹی قسم کی کبھی جو جانوروں کے
منہ اور آنکھ پر بیٹھتی ہے۔ دُ بِلِي كَبْرِي۔ واحد
هَمِيَجَةٌ. الْهَمِيَجُ: بیوقوف لوگ۔ کہا جاتا ہے
"رَجُلٌ هَمِيَجٌ وَهَمِيَجَةٌ وَامْرَأَةٌ هَمِيَجَةٌ
وَرَجَالٌ هَمِيَجٌ وَقَوْمٌ هَمِيَجٌ" نا کارے
لوگ۔ رَجَ اَهْمَاَجٌ.

الْهَمِيَجُ مِنَ الظُّبَاءِ: جوان خوبصورت ہرن
..... مِنَ الرَّجَالِ: بچکے ہوئے پیٹ والا۔

هَمَدَتْ (ن) هَمُوْدًا النَّارُ: جھسی ہونا
بجھنا۔ هَمَدَ الْقَوْمُ: مرنا۔ کہا جاتا ہے "كَأَدَّ
يَهْمَةُ مِنَ الْجُوعِ" وہ بھوک سے قریب
المرگ ہے صفت هَاهِدٌ وَهَمِدٌ وَهَمِيْدٌ.
هَمَدَتْ اَصْوَاتُهُمْ: خاموش ہونا۔ آواز بند
ہونا۔

هَمَدَ (ن) هَمَدًا وَهَمُوْدًا النَّوْبُ: پرانے
ہونے کی وجہ سے تہوں پر سے پھینا۔ صفت
هَاهِدٌ رَجَ هَمِيْدٌ. هَمَدَتِ الْأَرْضُ: بچھر
ہونا۔ اوسر ہونا۔ هَمَدَ شَجَرُ الْأَرْضِ:
درخت کا پرانا ہو کر ضائع ہونا۔

هَمْدَةٌ: بجھانا۔
اَهْمَدَ فِي الْمَكَانِ: اقامت کرنا..... فِي

السَّيْرِ: تیز چلنا..... الْكَلْبُ: تیز دوڑنا۔

الْقَوْمُ فِي الطَّعَامِ: کھانے پر ٹوٹ پڑنا۔
اَهْمَدَتِ الرِّيحُ: ہوا کا ٹھہر جانا..... الْهَدِيَّةُ
عَضْبِيَّةٌ: غصہ فرو کرنا۔ بجھانا۔ اَهْمَدَ فُلَانٌ:
ناگوار چیز پر خاموش رہنا..... اَصْوَاتُ

الْقَوْمِ: خاموش ہونا۔ آواز بند ہونا۔

الْقَحْطُ الْأَرْضُ: خشک کر دینا۔ کہا جاتا ہے
"اتَوَاعَلَى قَوْمٌ فَاهْمَدُوهُمْ" وہ لوگ قوم
کے پاس آئے اور ان کو مار ڈالا۔

الہامید: قا۔ پرانا کالا متغیر شدہ۔ خشک نباتات و درخت۔ بجز زمین۔ ج ہوامید۔

الہمّٰن: آواز کو زیادہ کرنے کا آلہ۔
الہمّٰنہ: سکتہ۔

الہمیّد: وہ مال جو کسی کے ذمہ حکومت کے وقت میں لکھا ہو۔

الہمّٰذی: تیز رفتاری۔ کہا جاتا ہے "إنّہ لذو ہمّٰذی فی جزیہ" وہ چلنے میں تیز رفتار ہے۔ تیز رفتار اونٹ یا اونٹنی۔ بارش کی شدت۔ گرمی کی سختی۔

ہمّٰذان: ایک شہر کا نام جو مملکت ایران میں ہے۔

الہمّٰذانی: ہمدان کی جانب منسوب۔ بہت بولنے والا۔ مِنْ الْمَشَى: مختلف چالیں چلنا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ يَمْشِي هَمّٰذَانِيًا" وہ مختلف چالیں چلتا ہے۔

ہمّٰز (ن) ہمّٰز: الماء: پانی گرانہ۔ الماء: پانی گرانہ۔ کہا جاتا ہے "هَمَزَتِ الْعَيْنُ بِالْمَشْعِ" آنکھ نے آنسو بہایا۔ ہمّٰز ما فی الصّرع: سارا تھن دوہ لینا۔ الكلام و فسی الكلام: بہت بولنا۔ الفرس الأرض: گھوڑے کا تخت

تھوکر میں مارنا۔ لفلان من ماله: دینا۔ البناء: عمارت و خانہ۔ هَمَزَةٌ مَهْمَزَةٌ الشّيء: کل لے لینا۔ انهمّٰز الماء: پانی بہنا۔ الشجره: جھڑے ہوئے پھول والا ہونا۔ البناء: عمارت گرانہ۔ مسمار ہونا۔ انهمّٰز الفرس: گھوڑے کا دوڑنا۔ الفرس الأرض: گھوڑے کا تخت تھوکر میں مارنا۔

الہامیر: قا۔ سحاب حایر: خوب برسنے والا بادل۔

الہمیر: موٹا مرد۔ رمل ہمیر: بہت ریت۔

الہمیرہ: ہمیر: کا اسم مرہ۔ بوچھا۔ غصہ سے گفتگو کرنا۔

الہمّٰز من السحاب: بہت برسانے والا

بادل۔ من الرجال: بہت بک بک کرنے والا۔

الہمیر و الہمیرہ: بہت بڑھیا۔ ظنی ہمیر: اچھے بدن والی ہرنی۔

الہمّٰز و الہمّٰز: بہت بک بک کرنے والا۔ الہمّٰز: مہمانوں کی بہت ضیافت کرنے والا۔

الہمّٰز: بہت بک بک کرنے والا۔ بہت ریت۔

ہمّٰز: علیہ الخیر: گڑ بڑ خیر بیان کرنا۔

الہمّٰز: خیر میں گڑ بڑی۔ اختلاط۔ سخت۔ سرعت۔ لوگوں کا شور۔ باطل۔

الہمّٰز: تیز رفتار اونٹ و اونٹنی۔

الہمّٰز: لوگوں کا شور۔

تہمّٰز الفقوم: حرکت میں آنا اور اسم الہمّٰزہ۔

الہمّٰز: حرکت۔

الہمّٰز: بہت بڑھیا۔ بہت دودھ والی اونٹنی۔

ہمّٰز (ن ض) ہمّٰز: دبانہ۔ بھیننا۔ چھوٹا۔ دفع کرنا۔ مارنا۔ دانت سے کاٹنا۔

پیٹھ پیچھے نسبت کرنا۔ صفت ہمّٰز و ہمّٰزہ: توڑنا۔ ہمّٰز الشیطان الإنسان: شیطان کا وسوسہ ڈالنا۔ بہ الأرض: پچھڑنا۔

الفرس: گھوڑے کو دوڑنے کے لئے مہمیز چھوٹا۔

العنب او راسہ: پھوڑنا۔ الکلمہ او الحرف: ہمزہ کے ساتھ بولنا یا ہمزہ کی علامت لگانا۔

انهمّٰز الکلمہ او الحرف: ہمزہ کے ساتھ پڑھا جانا یا ہمزہ کی علامت والا ہونا۔

الہامیز: قا۔ عیب گیری کرنے والا۔ ج ہمّٰز و ہامیزون۔

الہمّٰز: مسم۔ ہمّٰز الشیطان: جنون۔ کہا جاتا ہے "رینح ہمّٰزی" تیز آواز والی ہوا "قوس ہمّٰزی" زور سے تیر بھینکنے والی کمان۔

الہمّٰزہ: ہمّٰز: کا اسم مرہ۔ حروف ہما کا حرف۔ ح ہمّٰزات۔ ہمّٰزات الشیطان: شیطانی خطرے۔

الہمّٰزہ: عیب جو۔ نکتہ جیس۔ کہا جاتا ہے "رجل ہمّٰزہ و امرأة ہمّٰزہ" عیب جو مرد۔ عیب جو عورت۔

الہمّٰز: عیب جو۔ طعن تشنیع کرنے والا۔ قوس ہمّٰز: زور سے تیر بھینکنے والی کمان۔

رجل ہمّٰز الفقاد: تیز طبیعت مرد۔

الہمّٰز و الہمّٰز: مہمیز و مہامیز۔

الہمّٰزہ: چا بک تا زیادہ۔ ڈنڈا جس کے سرے پر لوہا لگا ہو اور جانور کے تیز کرنے کے لئے کام میں لایا جائے۔

ہمّٰز (ض) ہمّٰز الصوت: آواز کو پست کرنا۔ الیٰ یحدینہ: آہستہ آہستہ باتیں کرنا۔ العنب: انگوٹھ کو پھوڑنا۔

الشیء: توڑنا۔ الطعام: منہ بند کر کے چبانا۔ الشیطان: وسوسہ ڈالنا۔ بالقدم: آہستہ قدم رکھنا۔ الرجل: بغیر سستی کے رات میں چلنا۔

ہامّٰزہ مہامّٰزہ: چپکے چپکے باتیں کرنا۔

تہامّٰزہ: باہم چپکے چپکے باتیں کرنا۔ کہا جاتا ہے "تہامّٰزوا سورا" انہوں نے رازدارانہ باتیں کیں۔

الہمّٰز: مسم۔ پست آواز۔ آہستہ قدم۔ کہا جاتا ہے "هُوَ يَطُأُ الْأَرْضَ هَمّٰزًا" وہ زمین پر آہستہ قدم سے چلتا ہے "وَنَسَكَلُمُ هَمّٰزًا" وہ آہستہ بولتا ہے۔ "هُوَ يَأْكُلُ هَمّٰزًا" وہ کھانے میں منہ نہیں کھولتا۔

"وَأَخَذْتَهُ أَخْذًا هَمّٰزًا" میں نے اس کو سختی سے پکڑا۔

الہمّٰز: اسم مبالغہ۔ شکار کو پھانسنے والا شیر۔ الہمّٰز: رات میں چلنے والا۔ شکار کو پھانسنے والا شیر۔ آہستہ قدم سے چلنے والا شیر۔

الہمّٰز: آہستہ چال۔ اونٹ کے پاؤں کی

<p>کے آزادانہ پھرنا۔ صفت ہامیل ج ہوامیل وہمؤلۃ وھامیلۃ وھمل وھمل وھمل ہملی۔ أَهْمَلَهُ: جان بوجھ کر یا بھولے سے چھوڑ دینا۔ أَهْمَلَ أَمْرَهُ: اچھی طرح سے نہ کرنا الحَرْفُ: حرف پر نطق نہ لگانا۔ لگاتار برستا۔ الْهَمْلُ: بیوند لگا ہوا کپڑا۔ الْهَمْلُ مِنَ الْإِبِلِ: رات یا دن میں بغیر چرواہے کے چھوڑے ہوئے اونٹ۔ اُتارا ہوا کھجور کا چھلکا۔ بے روک کے بننے والا پانی۔ الْهَمْلُ: چھوٹا مکان۔ الْهَيْجَلُ: عمر رسیدہ۔ الْهَيْشَالُ: نرم ویران زمین جس کو کوئی آباد نہ کرے۔ الْهَمَالِيلُ: گھاس کا بقیہ۔ پینا ہوا کپڑا۔ الْمُهْمَلُ: مضع مِنَ الْكَلَامِ: غیر مستعمل۔ بَيْنَ الْحُرُوفِ: غیر منقوٹ حروف۔ هَمَلَجٌ هَمَلَجَةٌ الْبُودُونُ: تیز رفتاری کے ساتھ نرم چال چلنا۔ عمدہ چال والا ہونا۔ الْهَمَلَجُ: عمدہ چال کا ترکی گھوڑا۔ ج ہمالیج اور کہا جاتا ہے "ذابۃ ہملاج" تیز رفتاری کے ساتھ اچھی چال والا جانور۔ مذکر مؤنث اس میں برابر ہیں۔ الْهَمْلَعُ: بے وفا آدمی۔ تیز رفتار اونٹ۔ تیز رفتار آدمی جو حق سے قدم ڈالے۔ بھیڑیا۔ هَمْلَقٌ هَمْلَقَةٌ: تیز چلنا۔ هَمْلَقٌ هَمْلَقَةٌ: آہستہ بولنا۔ غم کی وجہ سے آواز کو سین میں پھراننا السَّرْعَةُ: بادل کا گر جانا۔ الْهَمْلِقَامُ: بہادر سخت سردار۔ شیر۔</p>	<p>تَهْمَطُ وَاهْتَمَطَ الْمَالُ: زبردستی لے لینا۔ اِهْتَمَطَ عَرْضُ فَلَانٍ: بے آبروی کرنا۔ گالی دینا السَّبْتُ الشَّافِ: بھیڑیے کا کبری کو پکڑنا۔ الْهَمَّاطُ: ظالم۔ هَمَطَتْ (ف ن) هَمَطًا وَهَمَطًا وَهَمُوعًا وَهَمَطَانًا وَتَهْمَاتًا الْعَيْنُ: آنسو بہانا اور هَمَطَتِ الْعَيْنُ بِالذَّمْعِ: بھی بولا جاتا ہے وَهَمَعَ الطَّلُ عَلَى الشَّجَرَةِ: شبنم گرنا۔ هَمَعَ زَانَةُ: زخمی کرنا۔ أَهْمَعَ الذَّمْعُ وَنَحْوَهُ: آنسو بہنا الطَّلُ: ورخت پر شبنم گرنا۔ تَهْمَعُ الرَّجُلُ: تکلف رونا الذَّمْعُ وَ نَحْوَهُ: آنسو بہنا۔ أَهْمِيعُ لَوْنَهُ: رنگ بدل جانا۔ الْهَمَامِيعَةُ: الهَمَامِيعُ: کامونٹ ج ہوامیع ذُمُوعٌ هَوَامِيعٌ: بیٹے والے آنسو۔ نَسْحَابٌ هَمِيعٌ: برسنے والا بادل۔ غمِيقٌ هَمِيعَةٌ: ہمیشہ روئی ہوئی آنکھ۔ الْهَمُوعُ: بیٹے والا۔ الْهَمِيعُ: فوری موت۔ هَمِيعٌ (ف) هَمِيعًا زَانَةُ: سر توڑنا۔ إِنْهَمَيْتِ الرُّطْبَةَ: تر کھجور کا پھٹ جانا الْقَرْحَةُ: زخم کا ہرا ہونا۔ الْهَمِيعُ: موت یا فوری موت۔ الْهَمِيقُ: نرم گھاس۔ بہت گھاس۔ خشک گھاس۔ هَمِكَةٌ (ن) هَمِكًا فِي الْأَمْرِ: کسی کام کے لئے کسی پر زور دینا۔ تَهْمِكُ وَإِنْهَمِكُ فِي الْأَمْرِ: کسی کام میں شہمک ہونا۔ بے حد مصروف ہونا۔ إِنْهَمَكَ إِهْمِيكَ كَمَا الرَّجُلُ: غصہ سے بھر جانا۔ صفت مَهْمِكٌ. هَمَلَتْ (ن ض) هَمَلًا وَهَمَلَاتًا وَهَمُولًا عَيْنُهُ: آنسو بہانا السَّمَاءُ: آہستہ آہستہ لگاتار برستا۔ هَمَلَتْ (ن ض) هَمَلًا الْإِبِلُ: بغیر چرواہے</p>	<p>آہستہ۔ الْمَهْمُوسُ: مضع مِنَ الْكَلَامِ: غیر واضح مِنَ الْحُرُوفِ: ضد مجبورہ اور حروف مبہوسہ میں جن کا مجموعہ "حَفَاةٌ" شخص فنگت ہے۔ الْهَمِيعُ: بہت مضبوط قوی آدمی جس کو کوئی پچھا نہ سکے۔ هَمَسَ (ن) هَمَسًا الْمَسِي: جمع کرنا۔ فَلَانًا: دانت سے کاٹنا۔ هَمَسَ (ض) هَمَسًا وَهَمَسَ (س) هَمَسًا الرَّجُلُ: بہت بک بک کرنا۔ الْقَوْمُ: بولنا اور حرکت میں آنا السَّجْرَادُ: نڈیوں کا ظاہر ہونے کے لئے حرکت کرنا۔ هَامَشَةٌ هَمَامَشَةٌ: جلدی کرنا۔ تَهْمَشُ مَبْنُطُ الْبُرِّ: کتوں کے سوت کا جاری ہونا الشِّي: کھوکھلا ہوجانا۔ تَهْمَشُ الْقَوْمُ: آپس میں گدگد ہونا اور حرکت کرنا۔ اِهْتَمَشَ الْقَوْمُ: مخلوط ہونا اور آگے پیچھے ہونا۔ اِهْتَمَشَتِ الذَّابَّةُ أَوْ السَّجْرَادُ: آہستہ چلنا۔ رینگنا۔ الْهَامِشُ: فانا۔ کتاب کا حاشیہ (مولد) الْهَمِشُ: مضم۔ کھانے کی تیزی۔ إِسْرَافَةٌ هَمَشِي أَوْ هَمَشِي الْخَيْدِيثُ: بہت بولنے والی اور شور مچانے والی عورت۔ الْهَمِشُ: انگلیوں سے تیز کام کرنے والا۔ الْهَمِيشَةُ: ہانڈی میں کچی ہوئی نڈی اور اگر آگ پر بھونئی جائے تو اسے الْمَحْمُوسُ کہتے ہیں۔ هَمَسَ (ن) هَمَسًا الذَّمْعُ: کھانا السَّرْجُلُ: کسی کو پچھاڑ کر اور پریشنا اور قتل کرنا۔ هَمَطَ (ض) هَمَطًا الرَّجُلُ: ظلم کرنا۔ بولنے اور کھانے میں لا پرواہ ہونا الشِّي: بغیر اندازہ کے لینا الْمَالُ: زبردستی لے لینا۔</p>
--	---	--

آواز۔ ہر آواز جس میں کچھ گلوگلوگی ہو ج
 ہماہم۔
 الہمہوم والہمہیم: شیر۔ الہمہوم: آواز
 لگانے والا۔ ہوا کی وجہ سے طے والا بانس۔
 الہمہیم: ریگنے والا گدھا۔
 ہما ینہمو ہموا الماء او الذمغ: بمعنی
 ہمی ینہمی۔
 ہمی ینہمی ہمیاً ولہمیاً وھمیانا الماء
 او الذمغ: پانی یا آسو بہنا۔ جاری ہونا۔
 ہمت العین: آسو بہنا..... الصاشیة:
 جانوروں کا چرنے کے لئے منتشر ہونا
 (..... ہمیاً) الشی: گرنا۔ ضائع ہونا۔
 الہامیة: اسم فاعل مؤنث ج ہوام ہوامی
 الابل: چراگاہ میں گم شدہ اونٹ۔
 الہیمان: بچیں۔ وہ بچیں جو تھلی یا نوے کا کام
 دے ج ہمایین (دخیل)
 هن (ض) هنا وھینا: رونا..... الیہ:
 مشتاق ہونا۔
 اهن الجمل: قوی کرنا۔ صفت مفعولی
 مہنون خلاف قیاس ہے جیسے احمہ کا صفت
 مفعولی محسوم قیاس کے مطابق مہنر
 ومحم آنا چاہئے تھا۔
 الہانۃ والہسانۃ: آکھ کی تھلی کے نیچے کی
 چرلی۔ کہا جاتا ہے "مابہ ہانۃ" یعنی اس کے
 اندر کچھ بھی خیر نہیں۔
 الہانۃ: رونے والی عورت۔
 ہنا: بگلیٹ الہاء: دور کی جگہ کے لئے
 اشارہ۔ وہاں۔ اس جگہ اور کہا جاتا ہے
 "نح ہانہا وھانہا وھنا وھنا" کچھ بٹ جاؤ۔
 ہناہ ینہوۃ وینہنہ ہنا: کھانا۔ ہنا فلانا:
 دینا..... الابل: اونٹ پر قطران ملنا.....
 الرجل: مد کرنا۔
 ہنا ینہی وینہنا وینہو ہنا وھنا وھنا
 الطعام الرجل وللرجل: خوشگوار ہونا۔ کہا
 جاتا ہے "ھناسنہ العاقیۃ" یعنی عاقبت
 میرے لئے خوشگوار ہے اور عرب دعا کے
 موقع پر کہا کرتے تھے۔ "لیہنک الولد"

یعنی لڑکا تمہیں مبارک ہو۔
 ہناہ ینہا ہنا بالامر: کسی سے "لیہنک"
 کہنا..... هنا وھنا وھناۃ: الطعام: کھانا
 تیار کرنا۔ درست کرنا۔
 ہنی (س) هنا وھناہ: خوش ہونا۔
 الطعام: کھانے سے لطف اٹھانا۔ لذت
 پانا اور کہا جاتا ہے "آکلنا من هذا الطعام
 حتی ہیننا منہ" اس کھانے کو ہم لوگوں نے
 کھایا یہاں تک کہ حکم سیر ہو گئے۔
 ہنو ینہو ہناۃ وھناۃ وھنا: بغیر رخ و
 مشقت کے حاصل ہونا۔
 ہناۃ تہینا وھینۃ بکذا: مبارکباد دینا۔
 اھناۃ اھناۃ: دینا۔
 تہنا تہنوا بہ: خوش ہونا..... بالطعام:
 کھانے سے لطف اٹھانا۔ لذت پانا۔
 اھنا اھننا: درست کرنا۔
 استہناۃ استہناۃ: مد وطلب کرنا۔ عطیہ مانگنا
 الطعام: خوشگوار کھانا۔
 الہانی: فاعل۔ خادم۔
 الہناء: قطران (تارکول) کھجوروں کا
 گچھا۔
 الہنۃ: قطران یعنی تارکول ملنا۔ عطیہ۔
 رات کا حصہ۔
 الہنیۃ: خوشگوار۔ بلا مشقت کے حاصل
 ہونے والی چیز۔ ابدال اور اقام کر کے
 الہنی بھی کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے "ھذا
 امر آساک ہیننا" یہ بات تم کو بلا مشقت
 حاصل ہوگی "واکملنہ ہیننا فرینا" میں نے
 اس کو بغیر کسی مشقت کے بڑے مزے سے
 کھایا "وہیننا لک" تمہارے لئے بغیر
 مشقت کے ہے۔
 المہنا: بلا مشقت حاصل ہونے والی چیز۔
 ہنبت ہنبتۃ الرجل: ڈھیلا ہونا۔ ست
 ہونا۔
 الہنیۃ: مشکل کام۔ قول میں ٹڑی۔ ج
 ہناہ الہناہ: مہینتیں۔ ٹڑیڑیڑی۔
 گد بڈ بڈ۔

الہنۃ: سخت کام۔ ج ہناہ۔
 الہناہ: ریت کے بلند ٹیلے۔ واحد
 ہنوزۃ (اور یہ نھابیر کا مقلوب ہے)
 الہنیر: گدھے کا بچہ۔ بچو کا بچہ۔
 الہنیر والہنیرۃ والہنیر: بچو۔
 الہنیرۃ ہنیر: کاموٹ۔ گدھی۔
 الہنیر: تیل۔ گھوڑا۔ خراب چیز۔ یا اس کا
 کنارہ۔
 الہنوز: ریت کا بلند ٹیلہ۔
 ہنس وھنس: خبروں کی کھوج میں ہونا۔
 الہنیع: لڑکیوں کے لئے نقاب جیسی ایک چیز
 جس کے اگلے حصہ کو سی دیتے ہیں۔
 ہنیع الرجل: بھوکا ہونا..... العجاج: غبار کا
 بہت ہونا اور اڑنا۔
 الہنیغ: ذرا سی حرکت سے اڑنے والی
 خاک۔ شیر۔ بدکار بیوقوف عورت۔ بھوک
 کی تخی اور بھوک کی صفت میں کبھی واقع ہوتا
 ہے۔ کہا جاتا ہے "جوع ہنیغ وھنیغ
 وھنوع" یعنی سخت بھوک۔
 ہنیل الرجل: انگڑا ہونا اور بھوک کی طرح
 چلنا۔
 ہنبت فی امرہ: سستی کرنا۔
 تہنیج الفصیل: اونٹ کے بچے کا ماں کے
 پیٹ میں حرکت کرنا۔
 ہنۃ الرجل: الو کی طرح چننا..... فی
 الامر: کوتاہی کرنا..... فلائنا: بیچ گالی دینا
 زینۃ: گالی برداشت کرنا اور گالی دینے
 والے کو گالی دینے سے باز رکھنا.....
 السیف: تلوار تیز کرنا اور کہا جاتا ہے
 "ماھنڈ عن الامر" وہ کام سے پیچھے نہیں
 ہٹتا۔
 ہنڈۃ المرأۃ: نرمی اور ملاطفت سے اپنے
 عشق میں مبتلا کرنا اور کہا جاتا ہے "ھنڈت
 بقلبہ" وہ اس کے دل کو اڑالے گی۔
 ہنڈ وھنڈۃ: سو یا سو سے زائد اونٹوں کا
 ریوڑج اھنڈ وھنڈادو ہنڈو۔ ہنڈ: عورت
 کا نام۔ پھر عورتوں کے لئے علم جنس کے طور

پر استعمال ہونے لگا جیسے زید عمرو و مردوں کے لئے جِ هُنُوْد و هُنْدَات. و الھند: ہندوستانی ملک کو بھی ہند کہتے ہیں اور بست کے لئے ہندی. جِ هُنُوْد: اور بسا اوقات امریکہ کے اصلی باشندوں کو بھی هُنُوْد کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے "لَقِيَ هُنْدَ الْاَحَابِسِ" یعنی وہ مر گیا۔

الھندوآسی و الھندوآسی: ہند کی جانب منسوب۔ کہا جاتا ہے "سِنْفٌ هِنْدُوآسِيٌّ" ہندی تلوار (اور یہ نسبت شاذہ ہے) الٰہابند و الھنادیک: ہندوستان کے مرد۔ الھنہند: ہندوستانی لوہے کی تلوار۔

الھنذب و الھنذباء و الھنذبنا و الھنذبنا: کاسنی۔

الھنذبنا و الھنذبنا: ہند یا کا واحد۔

الھنداز: حد و قیاس۔ اندازہ۔ کہا جاتا ہے "اَعْطَاةً بِلَا هِنْدَاذٍ وَلَا حِسَابٍ" اس نے اسے بلا اندازہ اور حساب کے دیا۔ (ذیل)

الھندازة: گز۔

المھنذب: انجینئر۔

ھندس ھندسۃ: عمارت کا اندازہ کرنا اور نقش بنانا۔

الھندیس من الرجال: تجربہ کار۔ دُور اندیش۔

الھندسۃ: حص۔ حد و قیاس اور اس کی اصل اندازہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ جا میٹری۔

ھندوس الأفسر: کام کا جاننے والا۔ جِ ھنادسۃ۔

المھنذبس: انجینئر۔ جا میٹری کا جاننے والا۔

الھنادیک: ہندوستان کے مرد (کاف تحقیر کے لئے ہے) واحد ہندی کئی۔

الھندلیق: بہت باتوں پر مرد۔

ھندم الشی: بقدرت سب ترتیب دینا۔ مضبوط کرنا۔ العود و غیرہ: اندازہ سے درست کرنا۔

الھندام: قد کی خوبصورتی اور اعتدال۔

ھنع (ف) ھنَعَا الشی: موڑنا۔ ڈہرا کرنا۔ لفلان: فروتنی کرنا۔ صفت ھانبع جِ ھنع۔

ھنیع (س) ھنَعَا: پست گردن اور جھکے ہوئے قد والا ہونا۔ صفت اھنع۔

اِسْتَهْنَعُ الرَّجُلُ: جواب سے عاجز ہونا۔

الھناع: ایک قسم کی بیماری جو آدمی کی گردن میں ہوتی ہے۔

الھنوع: قد کا جھکاؤ۔ اونٹ کے گردن کا جھکاؤ۔

الھنعاء: اھنع کا مؤنث۔ نَعَامَةٌ ھنعَاء: بچیدہ گردن کا شتر مرغ۔ اَکْثَمَةٌ ھنعَاء: چھوٹا نیلہ۔

الھنعة: ھنع کا اسم مرؤۃ: اونٹ کی گردن کی جڑ کا داغ۔ چاند کی ایک منزل جو صاف بستہ یا چمچ ستاروں پر مشتمل ہے اور جسوزاء کے بائیں جانب واقع ہے۔

الآھنع: جھکے ہوئے قد والا۔ زین پر ادھر ادھر مائل ہونے والا۔

ھنَفُ الرَّجُلِ: دوڑنا۔ تیز چلنا۔

ھانَفْتُ مھانَفَةً و ھانَفَا الْمَرْأَةُ خَاصَّةً: محول کرنے والے کی مانند ہنسنا۔ ھنَفَ فُلَانٌ صَاحِبَةً: یا ہم کھیل کو دکرنا۔

اھنَفَ: محلول کرنے والے کی مانند ہنسنا۔

الرَّجُلُ: تیز چلنا۔ الصَّيْبِيُّ: بچے کا روانا ہونا۔

تَهْنَفَ: رونا۔

اھنَفْتُ الْمَرْأَةَ: بمعنی ھانَفْتُ۔

تَهْنَفْتُ: محول سے ہنسنا۔ الصَّيْبِيُّ: بچے کا روانا ہونا۔ تَهْنَفْتُ بِهِ: تعجب کرنا۔

الھنوف: مسکراہٹ سے کچھ زیادہ ہنسی۔

الھنیق: بے آرامی۔ بے قراری۔

الھنیم: کھجور یا اس کی ایک قسم۔

الھنیم: روٹی۔

الھنیمۃ: نرم و پست آواز۔ ایک قسم کی ترکاری۔

الھنو: وقت۔

الھن. بتخفيف السنون وقد تشدّذ فی الشیغیر: ہر اسم جنس سے کنایہ کے لئے بمعنی شی، کہا جاتا ہے "هَذَا ھَنُكٌ" یہ تمہاری چیز ہے اور اس کی تغیر ھنسی ہے اور مؤنث ھنۃ اور اس کا لام کلمہ حذف ہے بعض لغت میں وہ لام کلمہ ہاء ہے تو اس کی تغیر ھنیہۃ ہوگی اور اس سے ہے "اَمْكُثْ ھُنَيْهَةً" یعنی تھوڑی دیر ٹھہرو اور بعض لغت میں لام کلمہ واؤ ہے تو اس کی تغیر مؤنث کی صورت میں ھنیۃ ہوگی اور اس کی جمع ھنونات اور کبھی جمع لفظ کے لحاظ سے ہوتی ہے تو کہتے ہیں ھنات اور اس کا اعراب حروف سے ہے۔ حالت رقی میں ھنونا اور نصبی میں ھناھا اور جری میں ھنیہا کہیں گے اور ھن کا مشبہ ھنان لفظ کے لحاظ سے اور ھنون اصل کے لحاظ سے اور جمع ھنون اور کہا جاتا ہے "فِی فُلَانٍ ھنَات" فلاں کے اندر بڑی خصلتیں ہیں اور اس کا استعمال خیر میں نہیں ہوتا۔

الھنا: خنسی و کمینہ نسب۔ و ھنا: بمعنی آنا تم کہتے ہو ھنا فَعَلْتُ: بمعنی اَنَا فَعَلْتُ۔

ھنا: اسم اشارہ ہے۔ مکان قریب کے لئے بمعنی یہاں اور اس میں ھنا: تنبیہ اور کاف خطاب لاحق ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے "ھننا" اور "ھناک" اور کاف خطاب کے ساتھ ساتھ لام بعد بھی لگایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے "ھنالک"۔

ھنا مَعْرَفَةٌ: کھیل کود۔ کہا جاتا ہے "جاء من ھنی" یعنی وہ یہاں سے آیا۔

الھناتۃ: مصیبت جِ ھنوات۔

ھنۃ: تذکرہ اور دھمکی کے لئے اسم صوت۔

ھنۃ (س) ھنَا و ھنۃ: تلتانا۔ زبان رکنا۔

ھو: مفرد مذکر کا نائب کی ضمیر ہے اور مشبہ کے لئے ھما جمع مذکر کے لئے ھم مفرد مؤنث کے لئے ھنی اور جمع کیلئے ھن: واؤ اور فا کے بعد ھو: اور ھنی: کے ھنا: کو ساکن کرنا بھی جائز ہے۔ کہا جاتا ہے "و ھو فھو و ھسی

جائز ہے۔ کہا جاتا ہے "و ھو فھو و ھسی

جائز ہے۔ کہا جاتا ہے "و ھو فھو و ھسی

جائز ہے۔ کہا جاتا ہے "و ھو فھو و ھسی

جائز ہے۔ کہا جاتا ہے "و ھو فھو و ھسی

جائز ہے۔ کہا جاتا ہے "و ھو فھو و ھسی

جائز ہے۔ کہا جاتا ہے "و ھو فھو و ھسی

جائز ہے۔ کہا جاتا ہے "و ھو فھو و ھسی

جائز ہے۔ کہا جاتا ہے "و ھو فھو و ھسی

جائز ہے۔ کہا جاتا ہے "و ھو فھو و ھسی

جائز ہے۔ کہا جاتا ہے "و ھو فھو و ھسی

جائز ہے۔ کہا جاتا ہے "و ھو فھو و ھسی

وفہسی اور لام کے بعد جیسے "اِنَّ هَذَا لَهَوٌ السُّحْقُ" مگر یہ قلیل ہے اور کبھی اشعار میں ہمزہ استفہام کے بعد بھی ساکن ہوتا ہے۔

الہوئیہ: چیز یا شخص کی حقیقت جو صفات جو ہری پر مشتمل ہو اور یہ ہُو کی جانب منسوب ہے۔

الہوہو: لفظ ہے جو مرکب ہے ہُو: مکرر سے اس کو اسم معرف بنا لیا گیا ہے۔ اور اس کے معنی اتحاد بالذات کے ہیں۔

ہاء یہوؤ ہوؤ بنفسہ الی المعالی: بلند کرنا۔ ہاء ہ بخیر أو شرّ وہاء بہ خیرا أو شرّا: گمان کرتا یا تہمت لگاتا۔ "ہاء بفلان" خوش ہونا اور کہا جاتا ہے "ہاء حیثہ" حسنہ" وہ ابھی شکل و صورت پر ہو گیا۔

ہوی یہوؤ ہوا الیہ: ارادہ کرنا۔ ہاء: کلمہ اجابت ہے۔ یعنی برفتح ہے۔ کہا جاتا ہے "ہاء یا رجل بکسر الہمزہ" یعنی لاؤ اور اس میں حساب: کی گردان جیسی گردان ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے "ہاء ہائینا ہاء و ا ہای ہائینا ہائین" ہمزہ ہاء کی تاکے قائم مقام ہے اور جب تم ہاء یا رجل فتح

ہمزہ کے ساتھ کہو گے تو اس وقت اس کے معنی میں ہوں گے۔ اے مردے۔ مذکر کی صورت میں "ہاء ہاؤما ہاؤم" اور مؤنث کی صورت میں ہاء: کسرہ کے ساتھ بغیر یاء کے اور ہاؤ ہاؤن اور تم کہہ سکتے ہو ہاک ہاکنما ہاکنم ہاک ہاکنما ہاکنن: کاف و ہمزہ کے قائم مقام ہے۔

الہوؤ: ہمس۔ ہمت۔ رای صاحب ارادہ۔ گمان۔ کہا جاتا ہے "وقع کذا فی ہوئی" او ہوئی: میرے گمان میں ایبا واقع ہوا۔ الہوؤب: دوری۔ بگو اس کرنے والا۔ یوقوف: آگ کی بھڑک۔

الہوؤبر: سوسن یا سرخ سوسن۔ چیتا۔ بہت بالوں والا بندر۔

نافۃ مہوؤبرۃ: بہت گوشت والی اونٹنی۔

أذن مہوؤبرۃ و مہوؤبرۃ: کان جس پر بال یا

اُون ہو۔

ہوؤت بہ تہوؤتھا: چلانا..... فلان: پست زمین میں آنا۔

الہوؤتۃ والہوؤتۃ: پست زمین۔ ڈھلوان راستہ جو پانی کی طرف جاتا ہو۔ ج ہوؤت۔ الہوؤتۃ: پیاس۔

ہوؤج یہوؤج ہوؤجا: لمبا بیوقوف۔ جلد باز ہونا۔ صفت اہوؤج۔

اھوؤجۃ: لمبا بیوقوف جلد باز پانا۔

تھوؤج النحر: شدت سے گرمی پڑنا۔ الہوؤجاء: الہوؤج: کامؤنث۔ تیز رفتار اونٹنی (اونٹ کا اہوؤج نہیں کہتے) الہوؤجاء: بین الریاح: تیز آندھی ج ہوؤج کہا جاتا ہے "العیث بہا ہوؤج الریاح" تیز آندھیوں نے اس کے ساتھ کھیل کود کیا۔ ضرئۃ ہوؤجاء: ایسی مار جس کا اثر جوف تک ہو۔

الاہوؤج: بہادر جنگ آزمودہ اور کہا جاتا ہے "ہوؤ اہوؤج الطول" وہ بہت لمبا ہے۔ ہوؤجل: الراجل: بھوؤر ساسونا۔ بے نشان راستہ پر چلنا۔

الہوؤجل: بے نشان ڈور کا بیان بے نشان راستہ ایسی زمین جس میں کچھ پتہ نہ چلے۔ ست بیوقوف بدکار عورت لمبی رات اوگتھ کا بقیہ کشی کا لنگڑا مہر بہرست رفتار ی اور کہا جاتا ہے "مئسی ہوؤجل" ڈھیلی ڈھالی چال۔

ہذا یہوؤ ہوؤذا: تو بہ کرنا۔ حق کی طرف لوٹنا۔ کہا جاتا ہے "ہذا المذئب الی اللہ" گنہگار نے توبہ کی۔ صفت ہاندد۔ ج ہوؤذ..... فلان: یہودی بنا۔ (تہوؤذا) نرم آواز سے بولنا..... فی المنطق: نرمی اور آہستگی سے بولنا۔

ہوؤذ تہوؤذھا: نرمی سے گلے میں آواز پھرانا۔ گانا۔ آہستہ آہستہ بھہر بھہر کے چلنا۔

کوبان کا گوشت کھانا..... فلانھا: یہودی بنانا۔ طرب میں ڈالنا۔ کھیل کود میں ڈالنا

..... الشراب فلانھا: مست کرنا..... فلان فی المنطق: نرمی اور آہستگی سے بولنا..... فی السیر: دیر کرنا۔ ہوؤذ: سوتا۔

ہاوؤذہ مہاوؤذہ: ایک دوسرے کو مائل کرنا۔ صلح کرنا۔ باہم وعدہ کرنا۔

تہوؤذ تہوؤذا: توبہ کرنا۔ حق کی طرف لوٹنا۔ یہودی ہونا..... فی المنطق: نرمی اور آہستگی سے بولنا۔

الہوؤاسۃ: نرمی۔ وہ چیز جس سے قوم کے درمیان بھلائی کی امید کی جائے۔ تخفیف و سہولت۔ میان اور اسی سے ہے "لا بُعثنک الی زجل لا تاخذہ فیک ہوؤاذہ" میں تم کو ایسے شخص کے پاس بھیجوں گا جس کو تمہارے بارے میں کوئی میان نہ ہوگا۔

الہوؤد: یہود..... ہاندد: کی جمع۔ ہوؤذ: ایک نبی (علیہ السلام) کا اسم گرامی۔ وقوم ہوؤذ: قوم عاد۔ الہوؤذۃ والہوؤذۃ: کوبان ج ہوؤذ۔ التہوؤید: ہمس۔ ریت میں ہوا کی سائیں سائیں کی آواز۔

التہوؤید والتہوؤاد: کمزور و نرم آواز۔ التہوؤاد: نرمی و ملاعت۔

یہوؤذ: یہودی۔ عیبت اور وزن فعل کی وجہ سے غیر منصرف ہے اور اس پر الف لام داخل ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے الیہوؤذ۔ الیہوؤذی: الیہود: کا واحد۔

الیہوؤذیۃ: یہودان۔ بیت المقدس اور اس کے اردگرد کا علاقہ۔

المہاوؤذۃ: ہمس۔ مراجعت۔

المہوؤذ: قائل کھیل کود طرب میں ڈالنے والا۔

اھوؤذ: بھوکا دن۔ دو شنبہ۔

الہوؤذج: یہودی ج ہوؤذ ج ہوؤذ ع شتر مرص۔ واحد ہوؤذ عہ۔ الہوؤذک: موٹا۔ ہوؤذ کک۔ ہوؤذا: ہوؤ: مبتدا اور ذاجر سے مرکب ہے

اضطراب۔ ج ہوسات اور کہا جاتا ہے
 "إِسْكَمٌ وَهُوسَاتُ اللَّيْلِ" اپنے آپ کو
 رات کے حوادث اور کمروہات سے بچاؤ۔
 "وَأَتَقُوا هُوسَاتِ السُّوقِ" اس سے بچو کہ
 بازار میں کوئی تمہارے ساتھ حیلہ کر کے
 تمہارا مال چرائے۔

الهُوسَاتُ: لوگوں کی جماعتیں۔ اونٹوں
 کے ریوڑ۔ مال حلال و حرام جمع کیا ہوا۔

الهُوسَاتُ: مخلوط جماعت۔
 التَّهَاشُوشُ: مال حرام۔

التَّهَاشُوشُ: حرام طریقہ سے جمع کیا ہوا
 مال۔

هَاعٌ يَهَاعُ هَوْعًا: سبک ہونا اور گھبرانا.....
 الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ: ایک دوسرے پر
 حملہ کارادہ کرنا (..... يَهَاعُ وَيَهْوَعُ هَوْعًا)
 السَّرْجُلُ: بغیر تکلف کے قے کرنا۔ اسم
 الهوع والهُوع والهنوعه.

هَوْعٌ تَهْوِيْعًا الرَّجُلُ مَا أَكَلَهُ: قے کر دینا
 اور تبول کے موقع پر کہا جاتا ہے "لَا هَوْعَ عِنْدَهُ
 مَا أَكَلَهُ" جو کچھ اس نے کھایا پیا ہے اس کے
 حلق سے نکال لوں گا۔

تَهْوَعٌ تَهْوَعًا: تکلف سے قے کرنا۔ خون کی
 قے کرنا اور کہا جاتا ہے "تَهْوَعُ الْقَيْ" اس
 نے جھکتے قے کی۔ "وَتَهْوَعُ نَفْسُهُ" اس
 نے اپنے نفس کی قے کی گویا کہ وہ اسے
 نکال رہا ہے۔

الهوع والهُوع والهُوعَة: قے۔ الهوع: ماہ ذی
 قعدہ ج ہوعات واهوعه.

الهوع: جیس۔ لاپچی۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ
 هَاعٌ وَهَاعٌ" یعنی لاپچی مرد (اور یہ ضائع کا
 مطلوب ہے)

الهوع: مہس۔ بدترین قسم کا لالچ۔
 الهوع والهُوع: دشمنی۔

الهُوع والهُوع: لڑائی میں چلانے
 والا۔

الهوع: بہت چیز۔
 الهسوف والهُسوف: گرم ہوا۔ شمنڈی ہوا۔

الهسوف: خیر و برکت سے خالی مرد۔ بیوقوف
 مرد۔

الهسوفة: جماعت۔ گردہ۔
 هَوْكٌ يَهْوِكُ هَوْكًا: احمق ہونا۔ صفت
 هَوْكٌ.

هَوْكٌ تَهْوِيْكًا: گڑھا کھودنا۔ هَوْكَةٌ:
 بیوقوف بنانا۔

تَهْوِيْكٌ تَهْوِيْكًا وَانْهَاكٌ انْهِيَاكًا: حیران
 ہونا اور لاپرواہی اور بے فکری کی وجہ سے
 مشکل میں پھنسنا۔ مضطرب القول ہونا۔

الهسوك والهسوك والاهسوك والهسوك
 واليهسوك: بیوقوف جس میں تھوڑی سی
 بھی عقل ہو۔

الهسوك: مہس۔ تھوڑی عقل کے ساتھ
 بیوقوفی۔

الهسوك: گڑھا۔
 الهسوك: حیران و سرگشتہ۔

الهسوك: هسوك: كاموث۔ ارض
 هسوكه وهسوكه: زمین شور۔
 الالهسوكاء: تخمیر لوگ۔

السهسوك: حیران۔ بلاکت کے گڑھے
 میں گرنے والا۔

هَالٌ يَهْوُلُ هَوْلًا الْأَمْرُ فَلَانًا: گھبراہٹ میں
 ڈالنا۔ خوفناک ہونا۔

هَيْبٌ هَوْلًا السُّكْرَانُ: حالت نشہ میں مختلف
 قسم کے رنگ دیکھ کر گھبرانا۔ کہا جاتا ہے
 "هَلْتُ مِنْهُ" میں اس سے گھبرایا۔

هَوْلَةٌ تَهْوِيْلًا: گھبراہٹ میں ڈالنا۔ هَوْلَتِ
 السمرانة: لباس اور زیورات سے مزین

ہونا۔ هَوْلُ الْأَمْرِ: بُراد کھانا..... عسدي
 الْأَمْرُ: خوفناک بنانا..... الْقَوْمُ عَلَى الرَّجُلِ
 بَكْدًا: گھبرا دینا..... عسلي الرجل: حملہ
 کرنا۔

تَهْوِيلٌ تَهْوِيلًا الرَّجُلُ: خوفناک ہونا.....
 مَالَةٌ: نظر بدلگانے کا ارادہ کرنا۔

إِهْشَالٌ إِهْشِيَالًا: گھبرانا۔ تمہے ہو "هَلْسُهُ
 فَاهْشَالٌ" میں نے اس کو گھبراہٹ میں ڈالا وہ

گھبرا گیا۔

إِسْتِهْشَالٌ يَسْتِهْشِيلُ فَلَانٌ الْأَمْرُ: خوفناک
 پانا۔ بعض لوگ "يَسْتِهْشِيلُوهُ" کہتے ہیں مگر جید
 لغت "يَسْتِهْشِيلُوهُ" ہی ہے۔

الهسائل: گھبراہٹ میں ڈالنے والا۔ من
 الْأَمْرُ: خوفناک۔ تاکید کے لئے کہا جاتا
 ہے "هَوْلٌ هَابِلٌ" مانند "لَيْلٌ لَائِلٌ" کے۔

الهسال: سراب۔
 الهسول: مہس۔ خوف۔ ج احوال و هوسول.

أَبُو الْهَسُولِ: ایک شاعر کا نام۔ ابراہم مصر کے
 قریب ایک مجسمہ۔

الهساله: چاند کا کنڈل۔

الهسولة: خوف دلانے کی آگ۔ اس کی
 صورت یہ ہوا کرتی تھی کہ کسی کتوں میں

آگ روشن کرتے تھے اور اس میں نمک اور
 گندھک ڈالتے تھے جب آگ بجڑک

جاتی اور نمک جھینٹ لگتا تو اس شخص سے جس کو
 قسم کھلانی ہوتی تھی اور وہ پہلے سے وہیں

موجود ہوتا تھا جاتا کہ یہ آگ تجھ کو دھمکا
 رہی ہے اور وہ قسم کھانے سے اعراض کرتا۔

وہ چیز جس سے بچو ڈرایا جائے۔ تعجب۔
 الهسولة: کسی کام کا خوف۔

التَّهَاشُوشُ: سرخ زرد۔ سبز مختلف قسم کے
 رنگ۔ تصادیر اور زیورات کی زینت۔

واحد تَهْوِيْلٌ. تَهَاشُوشُ الرَّبِيعِ: موسم بہار
 کے مختلف رنگ کے پھول۔

التَّهْوِيْلُ: مہس۔ ڈرانے کی چیز۔
 التَّهْشَالُ وَالتَّهْشِيلُ: خوفناک جگہ۔

المهسول: خوفناک۔
 السهسول: قاعدہ اور تاکید کے لئے کہا جاتا ہے
 "هَوْلٌ مَهْوُولٌ".

أَلْمَهْوُولُ: قسم کھلانے والا۔
 هَوْمٌ تَهْوِيْمًا وَتَهْوَمٌ تَهْوَمًا: اُدگدگی کی وجہ سے

سر جھکانا۔ تھوڑا سا سونا۔
 الهوام: سخت پیاس۔

الهسوم: بہت زمین۔ بلکی نیند۔ هسوم
 السمجوس: چنبیلی کے مانند ایک پودہ۔ اس

کوهُومُ الْمَجُوسُ: اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آتش پرست اس کو عبادت کے موقع پر استعمال کرتے ہیں اور اس کے بہت منافع بیان کرتے ہیں۔

الهامة: ہر چیز کا سرا۔ دھڑ پر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ سردار قوم۔ لوگوں کی جماعت۔

گھوڑا۔ جِ هَامٌ وَهَامَاتُ. الهامة: ایک چھوٹی قسم کا اوجس کو "الصدی" بھی کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے "هَذَا هَامَةٌ الْيَوْمِ او

غدي" یعنی وہ آج یا کل مر جائے گا" وَأَصْبَحَ فُلَانٌ هَامَةً" فلاں مر گیا۔ بَنَاتُ الْهَامِ:

دماغ کا مغز۔

الهيثم: ریگستان جو کبھی سیراب نہ ہوتے ہوں۔ قَوْمٌ هَيْمٌ: پیا سے لوگ۔

الهؤماة والهؤمة: بے آب و گیاہ میدان۔ الهؤام: شیر۔

الاهؤم: بڑے سردال۔

هَانُ يَهُونُ هُونًا الْأَمْرُ عَلَى فُلَانٍ: نرم و آسان ہوتا۔ کہا جاتا ہے "هَنْ عِنْدِي

الْيَوْمَ" یعنی آج میرے پاس اقامت کرو اور آرام کرو۔

هَانَ يَهُونُ هُونًا وَمَهَانًا وَمَهَانَةُ الرَّجُلِ: ذلیل و حقیر ہونا۔ کمزور اور کمین ہونا۔

هَوْنٌ تَهْوِينًا عَلَيْهِ الْأَمْرُ: نرم و ہلکا کرنا۔ کہا جاتا ہے "هَوْنٌ عَلَيْكَ" کوئی پروا نہ کر۔

هَوْنٌ الشَّيْءِ: پیچ سچھنا۔

هَوَانٌ مَهَاوَنَةٌ نَفْسُهُ: نرمی کرنا۔

أَهَانَةٌ إِهَانَةٌ: حقیر و پیچ سچھنا۔

تَهَاوَنَ بِهِ تَهَاوَنًا وَاسْتَهَانَ بِهِ اسْتِهَانَةً: حقیر سمجھنا۔ استہزاء کرنا۔ پیچ سچھنا۔

إِهْوَانَتْ إِهْوَانًا الْمَفَاذَةَ: بیابان کا وسعت کے ساتھ پست ہونا۔

الهياؤن والهياؤن والهياؤون: دو اور غیرہ کو سنے کا باؤن جِ هَوَاوِينُ.

الهون: مہم۔ سکون و وقار۔ کہا جاتا ہے "إمّش على هونك" یعنی اتنی روش پر چلو۔ "وهذا شئ هون" یہ حقیر چیز ہے

"أَحْبَبُ حَبِيبِكَ هَوْنًا مَّا" اپنے دوست سے دوستی کرو جس میں افراط نہ ہو۔

الهون: مہم۔ رسوائی۔ قرآن میں ہے "فَأَخَذَتْهُمُ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهَوْنِ"

مخلوق۔ کہا جاتا ہے "مَا أَدْرِي أَيُّ الْهَوْنِ هُوَ" مجھے نہیں معلوم وہ کون مخلوق ہے۔

الهؤنة: تسکین۔ صلح جِ هُونٌ (.....) والهؤنة) آہستگی سے کام کرنے والی عورت۔

الهينة: اسم نوع۔ سکون۔ وقار۔ کہا جاتا ہے إمّش على هينك: نرمی سے چلو۔

الهؤينا: نرمی و ملائمت اور یہ هؤنئی کی تفسیر ہے اور هؤنئی اهُون کی تانیث ہے۔

الهين والهين: نرم۔ کمزور۔ ذلیل۔ آہستہ کار۔ جِ اهُوناء وهينون وهينون و مؤنث هينة وهينة جِ هيناث وهيناث.

الاهون: اسم تفصیل۔ نرم۔ آسان۔ کہا جاتا ہے "هَوَّ اهُونَ عَلَيْهِ" وہ اس پر آسان ہے۔

المهُونُ والمهُونُ: دور جگہ یا پست ہموار زمین جِ مهُونَاتُ.

المهُون: بہت نرم۔ جِ مَهَاوِينُ.

المهانة: رسوائی۔ کہا جاتا ہے "زَجُلٌ فِيهِ مَهَانَةٌ" کمزور و ذلیل مرد۔

تَهْوَةٌ الرَّجُلِ: دردمند ہونا۔

الهؤهة والهؤاهية: بزدل۔

الهؤاهي: واپسی تابی باتیں۔

الهؤهاة: بيوقوف (.....) والهؤها) کنواں جس میں اترنے والے کیلئے کوئی سہارا نہ ہو۔

رَجُلٌ هَوَاهَاةٌ: کمزور دل۔ بيوقوف۔

الهؤ: جانب۔ کنارہ۔ روشدان۔

الهؤة: پست زمین۔ گہرا گڑھا۔ فضاء آسمانی۔ جِ هَوِيٌّ وَهَوٌّ وَهَوِيٌّ.

الهؤاة: پست زمین۔ گہرا گڑھا۔

هَوْتٌ تَهْوِيٌّ هَوِيًّا الطَّعْنَةُ: نیزے کے زخم کا چوڑا ہونا..... السعقاب: عقاب کا شکار

وغیرہ پر ٹوٹ پڑنا..... يَدِي لَهْ: ہاتھ کا بڑھنا اور بلند ہونا..... الرَّيْحُ: ہوا کا چلنا..... النَّاقَةُ: برا کبھیا: اونٹنی کا تیز دوڑنا۔ هَوِي الرَّجُلُ:

مرنا..... فِي السَّبْرِ: گزرتا..... فِي الْأَرْضِ: جانا۔

هَوِي يَهْوِي هَوِيًّا وَهَوِيًّا وَهَوِيًّا الشَّيْءُ: اُدپر سے نیچے گرنا۔ بلند ہونا اور چڑھنا اور کہا گیا ہے کہ الهؤي يَفْتَحُ الْهَاءَ ارْتِفَاعًا:

کیلئے اور الهؤي اَلْحِدَارُ: کیلئے هَوْتُ الْأَمِّ: ہلاک ہونا اور بقول بعض لڑکا گم کرنا۔

صفت هَاوِيَةٌ.

هَوِي يَهْوِي هَوَةً الْجَبَلُ: پہاڑ پر چڑھنا۔ هَوْتٌ تَهْوِي هَوِيًّا الْأَذُنُ: کان کا سننا۔

هَوِيَةٌ يَهْوَاهُ هَوِيٌّ: محبت کرنا۔ خواہش کرنا۔ صفت هَوِيٌّ.

هَآوَاهُ مَهَاوَةٌ وَهَوَاءٌ: مداراٹ کرنا۔ هَاوِي فُلَانٌ: تیز چلنا۔

أَهْوَى إِهْوَاءً. الشَّيْءُ: گزرتا۔ اهُوت يَدِي لَهْ: ہاتھ کا بڑھنا اور بلند ہونا اور کہا جاتا ہے "أَهْوَى إِلَيْهِ يَدِيهِ لِيَأْخُذَهُ" اس نے پکڑنے کے لئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بعض لوگوں کے نزدیک باء زائدہ ہے اور اس کی اصل "أَهْوَى يَدَهُ إِلَيْهِ" ہے۔ یعنی اس نے اس کی طرف ہاتھ جھکا دیا اور کہا گیا ہے "أَهْوَيْتَ بِالشَّيْءِ" یعنی میں نے اس کا اشارہ کیا۔ "وَأَهْوَيْتُ لَهُ بِالسَّيْفِ" فَطَارَتْ أَرْبَابُهُ أَنْفِهِ" یعنی میں نے اس کی طرف تلوار سے اشارہ کیا اور اس کی ناک کا بانسرا اڑا دیا۔ اهُوت الْعُقَابُ: عقاب کا شکار پر ٹوٹ پڑنا۔ اهُوِي الشَّيْءُ: اُدپر سے گزرتا۔

تَهَاوَى السَّقْمُ فِي الْمَهَاوَةِ: بعض کا بعض کے پیچھے گڑھے میں گزرتا۔ تَهَاوَى الرَّجُلُ: تیز چلنا۔

إِهْوَى إِهْوَاءً. إِلَيْهِ بَشَى: اشارہ کرنا۔ إِهْوَى إِهْوَاءً الشَّيْءُ: اُدپر سے نیچے گزرتا۔

إِسْتَهْوَاهُ اسْتِهْوَاءً: سرگشت و حیران بنا دینا۔

مہوش کر دینا۔ عشق کو مزین کر کے دکھانا۔
 الهسوی: فہمڈی۔ حرف الف کو بھیجی
 "ہسوی" کہتے ہیں اس وجہ سے کہ واؤ اور یا
 کے مخرج سے اس کا مخرج زیادہ وسیع ہے
 اور معنی ذُو الهواء کے ہیں جیسے نابل: بمعنی
 ذُو النَّبْلِ وَالنَّاسِبِ: بمعنی ذُو النَّسَابِ.
 الہاویہ: فضا۔ پچھم کرنے والی عورت۔
 ہسویہ: دوزخ۔ معرذ اور غیر منصرف ہے
 اور کبھی الف لام بھی صفت کا لحاظ کر کے
 داخل کرتے ہیں۔
 الہواء: فضاء آسمانی۔ ج اُھویۃ: خالی چیز۔
 بزول۔ واحد اور جمع اس میں برابر ہیں۔ کہا
 جاتا ہے "الھو ہواء او ہم ہواء" وہ بزول
 ہے یا وہ سب بزول ہیں۔ الہواء: ہر وہ چیز
 جس کا نچلا حصہ پھٹ گیا ہو۔ جس کی وجہ
 سے چیز کی حفاظت نہ ہو سکے جیسے توشہ دان
 کہ جس کا نچلا حصہ پھٹ گیا ہو۔ ہسوا: کا
 اطلاق ہر اس بننے والی چیز پر بھی ہوتا ہے
 جس کو تم سو گئے سکو۔
 الہسواء والیسواء: کبھی نرمی اور کبھی سختی سے
 معاملہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "عاملہ بالہویاء
 والیسواء" اس نے اس سے نرم گرم معاملہ
 کیا۔
 الہسوی: ہسوی: کا مصدر۔ خواہش۔ عشق
 چاہے خیر ہو یا شر۔ محبوب و معشوق محمود ہو یا
 مذموم مگر غیر محمود کا غلبہ ہے۔ کہا جاتا ہے
 "فَلَانٌ يَتَّبِعُ هَوَاءَهُ" فلاں نے اپنی خواہش
 نفس کا اتباع کیا اور یہ ندمت کے وقت بولا
 جاتا ہے۔ ایسا ہی "فَلَانٌ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ"
 فلاں ان لوگوں میں سے ہے جو راہِ راست
 سے ہٹ گئے ہیں۔
 الہوی: مشتاق۔ شائق۔ مؤنث ہویۃ۔
 الہسوی: کان میں سننا بہت۔ محبوب اور کہا
 جاتا ہے "مضی ہوی او ہوی من اللیل"
 رات کا ایک حصہ گزر گیا۔ "وَجَلَسْتُ
 عِنْدَهُ هَوِيًّا" میں اس کے پاس دیر تک بیٹھا
 رہا۔

الہویۃ: گہرا کنواں ج ہویا۔
 الہسوی: ہسوی: کا اسم تفضیل۔ تم کہتے ہو
 "هَذَا الشَّيْءُ اَهْوَىٰ اِلَيّْی مِنْ كَذَا" یہ چیز
 میرے نزدیک فلاں چیز سے زیادہ محبوب
 ہے۔
 الہسویۃ: فضاء آسمانی۔ گہرا گڑھا۔ کہا جاتا
 ہے "مضی تھوآء من اللیل" یعنی رات کا
 ایک حصہ گزر گیا۔
 السہوی والسہوۃ: فضاء۔ دو پہاڑوں کے
 درمیان کا فاصلہ ج مہاو۔
 ہسآء ہیسآء وھیسآء وھیسآء وھیسآء وھیسآء
 یھیسآء حیسآء وھیسآء: خوش شکل ہونا۔ ہسآء
 یھیسآء حیسآء الیہ: مشتاق ہونا۔ یھیسآء
 وھیسآء حیسآء لِلْأَمْرِ تیار ہونا۔
 حیسآء تھیسآء و تھیسآء درست کرنا۔ تیار ہونا۔
 حیسآء مھیسآء فی الأمر: موافقت کرنا۔ کبھی
 ہمز کو یا ء سے تحقیقاً بدل دیتے ہیں اور کہتے
 ہیں "حیسآء مھیسآء" کہا جاتا ہے "حیسآء فی
 دار کذا" یعنی کچھ مدت تک ایک رہا اور کچھ
 مدت تک دوسرا اور بقول بعض اس کے معنی
 یہ ہیں کہ ہر ایک نے اپنے حصہ سے نفع
 اٹھایا۔
 تھیسآء تھیسآء لِلْأَمْرِ: تیار ہونا۔ آمادہ ہونا۔
 مستعد ہونا۔ الشئی لفلان: قدرت دینا۔
 تھیسآء و تھیسآء علی الأمر: باہم موافقت کرنا
 علی کذا: جمع ہونا۔
 الھی والھی: کھانے پینے کا بلاوا۔
 الھیسۃ والھیسۃ: حالت۔ کیفیت۔ شکل
 صورت ج حیسانات. علم الھیسۃ: وہ علم جو
 اجرامِ سماویہ کے احوال سے بحث کرے۔
 الھیسۃ والھیسۃ: خوش شکل۔
 ہاہبہ نہاہبہ ہیسآء وھیسآء و مھابۃ: خوف کرنا۔
 بچنا۔ چونکہ رہنا۔ صفت فاعلی ہسائب
 وھیسوب وھیسوبۃ وھیب وھیب وھیبان
 وھیسبان وھیسبان وھیسبانۃ اور مھسوب
 وھیسوب وھیسوب وھیسبان اس کو کہتے ہیں
 جس سے لوگ ڈریں اور ایک لخت ہسائبہ

بھیسۃ: کی بھی ہے ہاب الریحل فلانا: بظلم و
 تو قہر کرنا۔
 ھیسۃ تھیسآء الی فلان: بیت دار بنانا۔
 رعب دار بنانا۔
 اھباب اھبابۃ الراعی بغنیمہ: بکریوں کو
 بھرنے یا لوٹنے کے لئے چلانا۔ بالایل:
 اونٹوں کو "ھساب" کہہ کے ڈانٹنا۔
 بالخیل: گھوڑے کو بھب یا بھنی کہہ کے بلانا
 یا ڈانٹنا۔ اھباب بھابہ: پکارنا۔ بلانا۔
 تھیسۃ تھیسآء: خوف کرنا۔ گھبراہٹ میں
 ڈالنا۔ خوف دلانا۔ کہا جاتا ہے "تھیسۃ
 زیدۃ" زید نے مجھ کو خوف دلایا۔
 اھتاب اھتیبانہ: ڈرنا۔ خوف کرنا۔
 الھاب: سانپ۔
 الھیسۃ: مہس۔ خوف۔
 الھیسبان: لوگوں سے ڈرنے والا۔ بزول۔
 ہلکا۔ چرواہا۔ مٹی۔ اونٹ کے منہ کے
 جھاگ۔ بہت۔
 الاھتب: زیادہ رعب والا۔
 مھکان مھاب و مھسوب: خوفناک جگہ۔ کہا
 جاتا ہے "هَذَا الشَّيْءُ مَهِيْبَةٌ لَكَ" یعنی یہ
 چیز تمہارے لئے ڈر کا باعث ہے۔
 ھیت تھیسآء بفلان: چلانا۔ پکارنا۔
 ھسب: اسم فعل بمعنی اغطسی کہا جاتا ہے
 "ھسب یاریحل وھاتی یا امرأۃ وھاتیانیا
 زحلان ویا امرأتان وھاتوا یارحال
 وھاتین یانساء"
 الھیسۃ: بہت گہری زمین۔ کہا جاتا ہے
 "ھیت وھیت لک (تکلیف الناء فیہما)
 بمعنی ھلم و تعال: یعنی آؤ حاضر ہوو احد جمع
 مذکر مؤنث میں کوئی فرق نہیں مگر عدد کا
 اظہار بعد اولے لگے میں ہوتا ہے جیسے ھیت
 لکما وھیت لکم وھیت لکن۔
 ھسب ھیسب ھیسب ھیسب وھیسبان لفلان: تھورا سا
 دینا۔ من السبال: ضرورت کے مطابق پانا
 فی الشئی: فساد ڈالنا اور ایسا ہی ھسب
 الذئب فی الغنم: بھیرے نے بکریوں

میں تباہی ڈالی..... پر غلبہ التراب: مٹی کو پاؤں سے کریدنا..... (ہینسا) القوم: جھگڑے کے وقت آپس میں ایک دوسرے سے گتے جانا..... الشی: بلنا۔

ہائینہ مہایفہ: کثرت مال یا کثرت عدد پر فخر کرنا۔

تہایفوا: جھگڑے کے وقت آپس میں ایک دوسرے سے گتے جانا۔

استہات استہافة: ما أعطاف: زیادہ کرنا..... المال: تباہ کرنا۔

الہینہ: حرکت۔

الہینة: لوگوں کی جماعت۔

ہائینة القوم: قوم کا شور۔

المہایب: بہت لینے والا۔

ہاج ہینج ہینجا و ہینجا و ہینجانا الشی:

بھڑکنا۔ برا بھینچنا ہونا..... البحر: سمندر کا

جوش مارنا..... السرجل: بیوقوف سے

مضطرب ہونا۔ بہادر ہونا۔ کود پڑنا.....

الشی وبالشی: برا بھینچنا کرنا حاجت الابل:

اوتوں کا پیسا ہونا۔ حاجت النبت:

نباتات کا خشک ہونا۔ حاجت الارض:

سوکھی نباتات والی ہونا۔ ہاج الابل:

اوتوں کو رات میں گھاس یا گھات کی طرف

چلانا۔ کہا جاتا ہے "حاجت السماء"

فسطرنا" آسمان میں ابرو باد پانا ہوا اور

ہمارے اوپر بارش ہوئی۔

ہینج تہینجا الشی: برا بھینچنا کرنا۔ بھڑکانا۔

کہا جاتا ہے "ہینج بینہما الشر" اس نے

ان دونوں کے درمیان شرفسا کو بھڑکا دیا۔

ہائینج و مہائینج و ہینجا: برا بھینچنا کرنا اور

لڑائی کرنا۔

أصاحت إصاجة الريح النبت: ہوا کا

نباتات کو خشک کرنا۔

أخیح إصیاجا الارض: سوکھی نباتات والی

پانا۔

تہینج تہینجا: برا بھینچنا ہونا۔ بھڑکنا۔

تہایج تہایجا القوم: باہم لڑائی کرنا۔

إحتاج إحتیاجا الشی: بھڑکنا۔

الہینج: فاجوش۔ غضب۔ کہا جاتا ہے

"ہاج ہائینج" اس کا غصہ بھڑک گیا "وہذا

ہائینج" اس کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔

الہینجۃ: الہینج: کامونٹ۔ أرض

ہائینجۃ: خشک یا زرد شدہ گھاس والی زمین۔

الہینج: مصل۔ لڑائی۔ زردی۔ خشک شدگی۔

حرکت۔ تیز ہوا۔ کہا جاتا ہے "ہوم ہینج"

ہوا یا بادل بارش کا دن۔ جب بادل اول

اول اٹھنا شروع ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے

"ہاج لہ ہینج حسن"۔

شی ہینج و مہینج: بھڑکی ہوئی

چیز۔ مونٹ کیلئے بھی ہینج: مستعمل ہے۔

الہیاجۃ: مینڈکی۔ حج حاجت۔

الہینجا و الہینجاء: لڑائی۔

ہادۃ ہیندۃ ہیندا و ہادۃ: گھبراہٹ میں

ڈالنا۔ تم زدہ کرنا۔ بلانا۔ درست کرنا۔

زائل کرنا۔ منہدم کرنا۔ باز رکھنا۔ بھڑکنا۔

ڈالنا۔ کہا جاتا ہے "ما ہیندنی ذلک" یہ

چیز مجھ کو برا بھینچنے نہیں کرتی اور نہ اس کی میں

پروا کرتا ہوں۔ بعض کا قول ہے کہ ہیندنا

استعمال حرف لئی کے ساتھ خاص ہے۔

ہیندۃ تہیندا: بمعنی ہادۃ (مذکورہ بالا معانی

میں) کھیند السرجل: تیز چلنا۔ کہا جاتا ہے

"ماہیند عن شیبی" وہ مجھے گالی دینے سے

نہ چیخے بنا نہ رکا۔

الہساد: مصل۔ اونٹ کی ڈانٹ کلمہ۔ کہا جاتا

ہے "سالۃ ہاد" یعنی وہ ایسا ہے کہ نہ تو اسے

منع کیا جاسکتا ہے نہ ڈانٹا جاسکتا ہے۔

الہیند: مصل۔ مضطرب و پریشان۔

الہیندانی: بزدل۔ مضطرب۔ بیوقوف۔

بخیل۔

ہینۃ فہینۃ ہورۃ فہورۃ: میں ایک لغت۔

الہینار: جو منہدم اور ساقط ہو۔

الہینر و الہینر: باؤشالی۔ الہینر و الہینر من

اللیل: رات کا نصف اول۔ زجل خینر:

لا پرواہی سے کاموں میں گھس پڑنے والا۔

الہینۃ: نرم زمین۔

زجل خینار: کمزور مرد۔

الہینرون: ایک قسم کی کھجور۔ واحد ہینرونۃ۔

ہاس ہینس ہینسا الشی و من الشی:

بکثرت لینا..... فلان: تیز چلنا۔

الاہینس: بہادر۔ بہت کھانے والا۔

..... من الابل: کسی چیز سے نہ رکنے والا

اونٹ۔

الہینس: مصل۔ جوتنے کے لئے بیلوں کی

جوڑ اور بقول بعض اس کا کل سامان۔

ہاش ہینش ہینسا الشی: خراب کرنا۔

بگاڑنا..... القوم: جوش و حرکت میں آنا۔ کہا

جاتا ہے "ہشتم غلینا" تم ہم لوگوں کے

اوپر جوش و حرکت میں آئے..... فلان:

بہت بولنا..... الساقۃ: اونٹنی کو آہستہ آہستہ

دوہنا..... المال: جمع کرنا..... السرجل: شاد

ہونا۔

الہینۃ: مخلوط جماعت۔ اضطراب۔ تندج

ہینسات۔

ہاض ہینض ہینضا الشی: جتنی برتا.....

عقنہ: گردن توڑنا..... الطیر: پرندہ کا بیت

کرنا۔

المہایص: پرندہ کے بیت کرنے کی جگہ۔

واحد مہایص۔

الہینص: پرندے کی بیت۔

ہاض ہینض ہینضا الطائر: پرندہ کا بیت

کرنا..... فلان العظم: بڑی کوڑا جانے کے

بعد توڑ دینا اور کہا جاتا ہے "تسائل

المریض فہاضۃ کذا" مریض اٹھ کھڑا ہوا

تھا کہ اس کو فلان چیز نے پھر دوبارہ بیمار

مرض کر دیا..... الحزن قلنہ: ہار ہار تم لاحق

ہونا۔

ہاضۃ: توڑنا اور بڑھ بڑھ کرنا۔

ہینضۃ: برا بھینچنا کرنا۔ بھڑکانا۔ آکسانا۔

تہینض تہینضا و انہاض انہینضا العظم:

بڑی کا بڑا جانے کے بعد توڑنا۔ تہینضۃ

المرض و نحوہ: بیماری کا بار بار لوٹنا۔

إِهْتِاضٌ إِهْتِاضًا الْعَظْمُ: ہڈی کو جڑ جانے کے بعد توڑنا۔

الْهَيْضُ: پرندے کی بیٹ۔

الْهَيْضَاءُ: لوگوں کی جماعت۔

الْهَيْضَةُ: ہاضمہ: کا اسم مرہ۔ رنج و غم کا عود۔

بیماری کے بعد بیماری۔ پیٹ کا چلنا ہیضۃ

الْكَرْبَى: نیند لاحق ہونے کی وجہ سے سستی

عَظْمٌ مَهِيضٌ: جڑنے کے بعد توڑی ہوئی ہڈی۔

الْمُسْتِهْضَاءُ: وہ شخص جس کی ہڈی جڑ جانے

کے بعد دوبارہ ٹوٹ جائے وہ مریض جو

صحت پانے کے بعد دوبارہ بیمار ہو جائے۔

هَاطٌ يَهِيضُ هَيْطًا: شور مچانا۔

هَاطٌ مَهَاطَةٌ وَهَاطٌ: شور مچانا۔

فُلَانًا: کمزور سمجھنا۔

تَهَاطٌ تَهَاطًا الْقَوْمُ: اکٹھا ہونا اور آپس

میں اپنے معاملات کو درست کرنا۔

الْهَيْطُ: مہس۔ کہا جاتا ہے "ما زال فی هَيْطٍ

وَمَيْطٍ" وہ ہمیشہ شور و غوغا اور برائی میں رہا۔

کہا جاتا ہے هَمٌّ فِی هَيْطٍ وَهَيْطٍ: وہ لوگ

اضطراب اور آنے جانے میں ہیں۔

هَاسٌ يَهِيضُ وَهَاسٌ هَيْعًا الشَّيْءُ: زمین پر

پھیلنا..... الرَّضَاضُ: کچھلنا..... الرَّجُلُ:

بھوکا ہونا..... الْإِبِلُ إِلَى الْمَاءِ: خواہش مند

ہونا..... الرَّجُلُ: خکلف سے کرنا.....

هَيْعًا وَهَيْعَةً وَهَيْوَعًا وَهَيْوَعَةً وَهَيْعَانًا

بزول ہونا۔ گھبرانا..... هَيْعَةٌ وَهَسَاعٌ

سخت حریم ہونا..... مِنَ الشَّيْءِ: تنگ دل

ہونا زچ ہونا۔

تَهَيَّعٌ تَهَيَّعًا وَإِهْتِاعٌ إِهْتِاعًا الشَّيْءُ: زمین

پر پھیلنا۔ کہا جاتا ہے "تَهَيَّعٌ وَإِهْتِاعٌ

السَّرَابِ" سراب زمین پر پھیلنا ہوا ہے۔

الْهَيْسَاعُ: پھیلاؤ۔ کہا جاتا ہے "رُجِحَ هَيْسَاعٌ

لِيَسَاعُ" تیز ہوا۔

الْهَسَاعُ: سخت لالچ۔ کہا جاتا ہے "زَجُلٌ هَسَاعٌ

لَا تُعْ" یعنی کمزور بزدل مرد اور ایسا ہی امْرَأَةٌ هَسَاعَةٌ

لَا تُعْ"۔

الْهَيْسَعَةُ: دشمن کی آواز جس سے تم خوف کرو

اور گھبراؤ۔ سُلْحُ زَمِينٍ پر بیٹے والی چیز۔ سخت

لالچ۔ ہر آواز یا برائی جو تم کو گھبراہٹ میں

ذال دے۔ أَرْضٌ هَيْسَعَةٌ: کشادہ پھیلی ہوئی

زمین۔

رُجُلٌ هَيْعٌ لَيْعٌ: کمزور گھبرانے والا مرد۔

الْمُسْتِهْيَعُ: برائی کی طرف جلدی کرنے والا۔

حیران۔

الْمُسْتَهْيَعُ: کھلا ہوا کشادہ راستہ اور کہا جاتا ہے

"طَرِيقٌ مَهْيَعٌ" ج مہایع۔ بَلَدٌ مَهْيَعٌ:

کشادہ شہر۔

هَيَّعَتْ هَيَّعَةً الْمَرْأَةُ: بدکار ہونا.....

وَتَهَيَّعَتْ: ایک جگہ پر نہ گھبرنا۔

الْهَيْغَرَةُ: مہس۔ سخت۔ طیش۔ بھوتی۔

بدکار عورت یا ایک حالت پر قائم نہ رہنے

والی عورت۔

هَيَّعَ تَهَيَّعًا الْمَطَرُ الْأَرْضَ: بارش کا زمین کو

اچھی طرح سے تر کرنا۔

أَهْيَغُ الْقَوْمُ: قوم کا خوش حال ہونا۔

الْأَهْيَغُ: تروتازہ زندگی۔ بہت پانی۔ سرسبز

سال۔ وَالْأَهْيَغَانُ: تروتازگی اور اچھی

حالت یا کھانا پینا۔

هَافٌ يَهَيِّفُ هَيِّفًا: بہت پیاسا ہونا.....

يَهَافُ هَيِّفًا الْعَبْدُ: غلام کا بھاگنا۔

(..... هَيِّفًا وَهَيِّفًا) الْإِبِلُ: اونٹوں کا سخت

إِهْتِافٌ إِهْتِافًا: پیاسا ہونا۔ صفت مُهْتِافٌ.

إِسْتِهَافٌ: بادھنیف: کے لگنے سے پیاسا ہونا

(دیکھئے هَيْفٌ)

الْهَافِيَةُ: فاف۔ سخت پیاس والا۔

الْهَافِيَةُ: ہانیف: کاموٹ۔ سخت پیاس کی

وجہ سے منہ کھول کر بادھنیف کی طرف رنج

کرنے والی اونٹنی (دیکھئے هَيْفٌ)

الْهَيْفُ: مہس۔ گرم ہوا جو نباتات کو خشک کر

دیتی اور پانی کو کھادیتی ہے اور حیوانات کو

پیاس میں مبتلا کر دیتی ہے۔ امثال عرب

میں سے ہے "ذَهَبَتْ هَيْفٌ لِأَذْيَانِهَا" اس

شخص کے لئے بولتے ہیں جو اپنی عادت پر

اڑا رہے یا اس وقت جب کہ ہر شخص اپنی

اپنی حالت پر متفرق ہو جائیں۔

رُجُلٌ هَافٌ: پیاس پر صبر نہ کر سکنے والا۔ اہل

حَافَةٌ: جلد پیاس سے ہونے والے اونٹ۔

الْجَهْفُافُ وَالْهَيْفَانُ وَالْهَيْفُوفُ: پیاسا۔

سخت پیاسا۔ جلد پیاسا ہونے والا۔

أَهْيَقُ الظِّلْمِ: شتر مرع کا لمبا ہونا۔

الْهَيْقِيُّ مِنَ الرِّجَالِ: بہت لمبا ترنگا اور بقول

بعض لمبا پتلا۔ شتر مرع۔ ج أَهْيَاقٌ

وَهَيْقٌ: موٹ ہنیفہ۔

الْأَهْيَقِيُّ: لمبی گردن والا۔

هَيْكٌ تَهَيِّكًا: جلدی کرتا۔ کھودنا۔

هَيْكَلٌ: ہل کا مادہ دیکھئے۔

هَالٌ يَهَيِّلُ هَيِّلًا عَلَيَّهِ التَّرَابُ: مٹی ڈالنا۔

هَيَّلَ تَهَيَّلًا عَلَيَّهِ التَّرَابُ: مٹی ڈالنا

(تشریح کثرت کے لئے ہے)

تَهَيَّلَ تَهَيَّلًا وَإِهْتَالًا إِهْتَالًا التَّرَابُ: مٹی

پڑنا۔ مٹی ڈالا جاتا۔ کہا جاتا ہے "هَسَالَهُ

فَأَهْتَالَ وَهَيَّلَهُ فَهَيَّلَ" اس نے اس پر مٹی

ڈالی اور وہ پڑ گئی۔ إِهْتَالًا عَلَيَّ عَلَيَّ فُلَانٍ:

فلاں کو لوگوں نے مارا بیٹا گالی دی۔

الْهَيْالُ: ڈالی ہوئی ریت۔ کہا جاتا ہے "رُجُلٌ

هَالٌ" گرنے والی ریت۔

الْهَيْسَلُ: مہس۔ گرمی ہوئی ریت یا خاک

وغیرہ۔ اسی سے مثال ہے "جَسَاءٌ بِالسَّيْلِ

ہونا۔

والہیہ لسان یعنی وہ بہت مال لایا وہ ریت اور ہوا لایا۔	الہیام: ہمیشہ گرتے رہنے والی ریت ج
الہیال: ڈھیر لگی ہوئی ریت۔ جمع شدہ ریت۔	الہیام: جنون۔ عشق۔ سخت پیاس۔ الہیام: سخت پیاس کی بیماری جو اونٹوں کو ہوتی ہے۔
الہیلان: ڈھیر لگی ہوئی ریت۔ جمع شدہ ریت۔	الہیم: مص۔ کہا جاتا ہے ”ہیم اللہ“ بمعنی ”ایم اللہ“ یعنی خدا کی قسم۔
الہیالۃ: چاند کے ارد گرد کا حلقہ۔ ج حالات۔	الہیماء: بے پانی کا بیابان۔
الہیول: ذرات جو روشندان میں دھوپ پڑنے وقت معلوم ہوں۔	الہیم: ہیام: کی بیماری والا۔ مؤنث ہیماء ج ہیم۔ لیل اہیم و لیلۃ ہیماء: رات جس میں ستارے نہ ہوں۔
الہیولی والہیولی: مادہ اولیٰ۔ نسبت کے لئے ہیولی و ہیولیائی ج ہیولات۔	الہیمان: پیاسا۔ ہیام: کی بیماری والا۔ مؤنث ہیمی ج ہیام و ہیمی۔ رجل ہیمان: محبت کی وجہ سے شیفتہ و سرگشتہ مرد۔
ہیلل ہیللۃ لا الہ الا اللہ: کہتا۔	الہیوم: حیران۔
ہام ہیمہ ہیمان و ہیموما و ہیمان و ہیمان و ہیمان بکذا: محبت کرنا۔۔۔۔۔ علیٰ وجہہ: آوارہ پیرتا (ہیمان) پیاسا ہوتا۔ کہا جاتا ہے ”ہم لسنفسک“ یعنی اپنی ذات کے لئے طلب کرو اور اسی کے لئے اہتمام کرو۔	الہیوم: حیران۔
ہیمہ الحب: محبت کا کسی کو پاگل کر دینا۔	الہیوم: سخت پیاس والا۔ ہیام: کی بیماری والا۔ ہیمن ہیمنۃ: آئین کہتا۔
تہیم تہیمۃ الہوی فلانا: پاگل ہونے پر برا چیختہ کرنا۔۔۔۔۔ فلان: اچھی چال چلنا۔	الطائر علیٰ فواخہ: پرندے کا بچے پر پر پھیلاتا۔
اہنام اہیماناً لِنفسہ: حیلہ کرنا۔	فلان علیٰ کذا: تمہیں ہوتا۔
انہیم فوادہ: محبت و غیرہ کی وجہ سے دل کا شیفتہ و سرگشتہ ہونا۔ صفت مستہام الفواد۔	المہیمن و المہیمن: اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ہیں۔ بمعنی خوف سے امن دینے والا یا عمل روزی موت و حیات و غیرہ کا قبیل۔
الہانم: فا۔ حیران۔ ج ہیم و ہیام۔ الہیام: دوسرے میں بتلا عشاق۔	الہینم: روئی۔

الہیمنۃ: پست آواز۔

الہینوم: غیر مفہوم کلام۔

ہیمہ ہیمہ: کسی چیز کو دفع کرنے کے لئے بولا جاتا ہے (کلمہ استزادہ ہے)

ہیمات: بملیث الاخر: اسم فعل ہے بمعنی دور ہوا اور اس میں چند لغات اور ہیں اہیمات

و اہیمان و ہیمان و ہیمان و ہیمان: حرف آخر میں تینوں حرکتیں ہیں۔

محرَب بھی ہیں اور مٹی بھی اور ایک لغت اہیماء ہے۔

الہیہو فسا ر یقون: زرد پھولوں والا پودا بعض طبی نوا مذکرتا ہے۔

ہیما: بعید کے لئے حروف نداء میں سے ہے اور اس کی اصل ایما ہے۔

ہیمی بن نسی و ہیمان بن بیان: غیر معروف شخص جس کے والد کا بھی پتہ نہ ہو۔

ہمی: اسم فعل بمعنی امر ہے یعنی جس کام میں تم ہو جلدی کرو۔ اس کے آخر میں کاف

خطاب لاحق ہوتا ہے جیسے ذو نیک اور ہاک کہا جاتا ہے ہیک اور کبھی تشبیہ کے لئے ”ہیما“ اور جمع کے لئے ”ہیمو“ کہا جاتا ہے۔

ہیماتیا: اسماء افعال میں سے ہے یعنی جلدی کرو۔

الہیما: شان۔ معاملہ۔ کہا جاتا ہے ”فما ہیما“ اس کا کیا معاملہ ہے۔ اس کی کیا

حالت ہے۔



ی: الیاء: حروف جمعی میں سے انھما یسوں حرف ہے۔ یہ حرف جو ف سے ہے۔

الیاء: تعمیر مؤنث کے لئے آتی ہے جیسے تَقْوَمِینِ وَفُؤْمِی: اور ضمیر شکام کا کام دیتی ہے۔ جیسے ضربنی و کتابی۔

یس: حرف ندا ہے۔ بعید و قریب دونوں کے لئے اور کبھی منادی محذوف ہوتا ہے جیسے یسا "لیتیسی تُكُنْتُ مَعَهُمْ" ویا "رُبُّ كُنَابِیةِ فِی الدُّنْیَا عَازِیةٌ یُؤْمِ القِیَامَةِ": اور یایہ کہ ان جیسے تراکیب میں یا صرف ضمیر کے لئے ہے۔

اور "انسانی رَجُلٌ وَبَالَةٌ رَجُلًا أَوْ مِنْ رَجُلٍ" و "یَسَالِكُ مِنْ فَسَارِسٍ": جیسی ترکیبوں میں یا حرف ندا اور لام جمع کے لئے ہے۔

یسس ییاس و ییسس ییاسا ویناسیة مِنْهُ: تا امید ہونا۔ صفت فاعلی یایس و ییوس و ییوسس جمع ییوسس اور صفت مفعولی ییوسس مِنْهُ اور کبھی ییسس: جانتے کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے "الَمْ تَیَسُّوا انّی اِنِّی فَارِسٌ وَهَذَمٌ": کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں فارس زہدم کا بیٹا ہوں۔

یسست المُرَاةُ ییاس: بانجھ ہونا۔ صفت یایس۔ اَكْ یَیَسَاةٌ اِنْسَانًا وَایَسَاةٌ اِنْسَانًا وَهُوَ اِنْسَاةٌ: تا امید کرنا۔ اَكْ یَیَسُ اللّٰهُ المُرَاةُ: بانجھ کرنا۔ اِنْسَانٌ اِنْسَانًا وَایَسَانٌ اِنْسَانًا مِنْهُ: یایس ہونا۔

الیاس و الیناسیة: تا امید ییادیایانہ و ییایانہ القوم: پکارنا۔ بالابل: ائی: کہہ کے ضمیر انا (ای) ایک کلمہ ہے جس سے اونٹوں کو ڈانٹتے ہیں) ییاس: لوگوں کے جمع ہونے کے لئے پکارنے کا

اس صوت۔

الیایاء: مص۔ ییویو: نامی شکاری پرندہ کی چیخ۔ الیویویو: ایک قسم کا شکاری پرندہ۔ باز کے مشابہ۔ مگر اس سے کچھ چھوٹا جس کو جلم بھی کہتے ہیں۔ ج ییایی۔

ییب المَنَزَلُ: ویران کرنا۔ کہا جاتا ہے "خَرْبُوهُ وَیَبُوهُ": انہوں نے اسے تباہ و ویران کیا۔

الییاب: ویران۔ کہا جاتا ہے "مَنَزَلٌ خَرَابٌ یَبَاتٌ": ویران منزل۔ الایید: ایک قسم کی نباتات۔

یسس یتیس و ییسس یتسا ویتسا وایتس: خشک ہونا۔ صفت ییس و ییاس و ییوسس و یییس وایتس: کہا جاتا ہے "یتیس ما ینتھما": ان دونوں کے تعلقات منقطع ہو گئے۔

ییسس وایتس الشی: خشک کرنا۔ ایتس المکان: خشک نباتات والی ہونا۔ ایتس القوم: خشک زمین میں چلنا۔ ایتس العود: خشک ہونا اور کہا جاتا ہے "ایتس یاسر جُل": یعنی چپ رہو۔

ایتسس الریق: تھوک خشک ہونا۔ الیایس: فاجیس۔ رَجُلٌ یایس: بے برکت آدمی۔ حَجَرٌ یایس: سخت پتھر۔ الیتس: خشک جس میں کبھی تری نہ رہی ہو۔ خشک جلد جو پہلے تری ہوشافہ ییس بے دودھ کی بکری۔

الیتس: مص۔ خشک۔ ییاس: کی جمع۔ جیسے راکب کی جمع راکب کہا جاتا ہے "رَجُلٌ ییس": بے برکت شخص۔ شی ییاس: خشک چیز۔

الییوسہ: خشکی۔

ییسس المماء: پسینہ۔

الییسان: کھائی یا پھڑکی کے کنارے کی ہڈیاں جن پر گوشت نہیں ہوتا۔

الیایس: سخت چیزیں جن پر تلوار کی آزمائش کی جاتی ہے ایتس کی جمع۔

العیاس: پودوں کو خشک کرنے والی ہوا۔

الیتسوع و الیتسوع: دودھ والے پودے ج یسوعات۔

یتیم یتیم ویتیم یتیم ویتیم یتیم ویتیم: الضیی من ابیہ: یتیم ہونا۔

یتیم: (ض) یتیم: کوتاہی کرنا۔ سستی کرنا۔ ٹھکانا۔ ویر کرنا..... مِنْ هَذَا الامرِ ارہائی پانا۔ یتیم الضیی: یتیم ہونا۔

یتیمہ وایتیمہ: یتیم کرنا۔ ایتیمت المرآة: یتیم بچوں والی ہونا۔ صفت فوتم۔ ج یتیمتیم۔

الییسیم: نابالغ بچہ جس کا باپ مر گیا ہو..... یسن الیہاتم: جس کی ماں مر گئی ہو ج ایتام ویتامی ویتیمہ ویتیمہ ویتیمہ ویتیمہ: اکیلا۔ کہا جاتا ہے یتیم ویتیم ویتیم۔ علیحدہ ریگستان۔ بے نظیر۔ بے شل۔

الییسیمہ: یتیم کا موت۔ ج یتامنی: علیحدہ ریگستان۔ فُرَّةٌ ییسیمہ: پیش قیمت بے نظیر موتی۔ الیتیم: مص۔ تم۔ الیتیم: مص۔ یتیمائی۔ یتیمی کی حالت۔

الیتیم: مص۔ یتیمائی۔ یتیمی کی حالت۔ حاجت اور کہا جاتا ہے "فسی سیرہ یتیم": اس کی چال میں ضعف و خور ہے۔ صبی یتیمان: یتیم بچہ۔ کہا جاتا ہے الخورب

مُتَّسِمَةٌ: یعنی لڑائی بچوں کو تھیم بنانے والی ہوتی ہے۔
 يَنْسَتُ نَيْسًا وَيَنْسَتُ اِيْنَا الْمَرْأَةُ او النَّاقَةُ
 الْمَوْلِدُ: پاؤں کی جانب سے پیدا ہونے والے
 بچے کو جننا۔ صفت مَوْتِنٌ وَمَوْتِنَةٌ: صفت مفعولی
 مَوْتُونٌ اور قیاس مَوْتُونٌ ہے۔
 الْيَسَنُ: وہ بچہ جس کے پیر پیدا ہونے سے پہلے ظاہر
 ہوں۔
 الْمِيخَارُ: کھیلنے کا ڈنڈا۔ چوگان۔
 الْيَخْمُورُ: سرخ۔ چھوٹی دم والا بارہ سنگھا۔
 الْيَخْمُومُ: بہت کالا۔
 الْيَخْلُثُ: وہ بڑی کشی جو سیر کرنے اور جلے
 منعقد کرنے کے لیے ہو اور اس میں آرام و
 آسائش کا تمام سامان ہوتا ہے۔
 يَنْدَعُ النَّوْبُ: اِنْدَعُ: سے رنگنا (دیکھئے لفظ
 اِنْدَعُ)
 اِنْدِعَ الْحَجَّ عَلَي نَفْسِهِ: احرام کے وقت خوشبو
 لگا کر حج واجب کرنا۔
 الْاِنْدِعُ: زعفران اور بقول بعض قہم کی کڑوی۔
 يَنْدَى يَنْدَى يَنْدِي يَنْدِي فُلَانٌ مِنْ فُلَانٍ: فائدہ
 حاصل کرتا۔ يَنْدَى فُلَانٌ مِنْ فُلَانٍ: ہاتھ جاتا
 رہتا۔ خشک ہوتا۔ يَنْدَى الرَّجُلُ: کمزور ہونا اور
 کہا جاتا ہے "اِنَّ لِفُلَانٍ مَسَالًا يَنْدَى بِهَا
 وَيَنْوُجُ": اس کے پاس مال ہے جس کی وجہ سے
 وہ ہاتھ اور باغ کو کشادہ رکھتا ہے (باغ دونوں
 ہاتھوں کے پھیلاؤ کا نام ہے)
 يَنْدَى مِيَاذَةَ الرَّجُلِ: بدلہ دینا یا دست بدست
 دینا۔
 اَنْدَى اِنْدَاءً عِنْدَ فُلَانٍ وَالْيَسِي: انعام کرنا۔
 صفت فاعلی مُؤَدٌ و صفت مفعولی مُؤَدَى اِلَيْهِ.
 الْيَسُ: ہاتھ۔ متعطلی۔ کلر مَوْنَتٌ ہے اور اس کا لام
 محذوف ہے۔ اصل يَنْدَى ہے۔ شہینہ يَنْدَانُ ج
 الْاَيْدِي وَالْيَدِي مَعَ الْاِيَادِي اور اِيَادِي کا اکثر
 استعمال نعت کے معنی میں ہوتا ہے اور الْاَيْدِي:
 کی جمع الْاَيْدِيں بھی آتی ہے۔ الْيَدُ: نعمت و
 احسان ج يَدِي وَيَدِي وَيَدِي وَيَدِي اَيْدِي: جاہ

و مرتبہ۔ قدرت۔ طاقت۔ کہا جاتا ہے "مَالِكُ
 عَلَيْهِ يَدٌ": تم کو اس پر طاقت حاصل نہیں۔
 ندامت۔ ذلت۔ جماعت۔ کھانا۔ ظلم سے
 روک۔ راستہ۔ کہا جاتا ہے "اَنْعَدْتُهُمْ يَدَ
 الْيَخْرِ": وہ ان لوگوں کو سمندر کے راستہ سے
 لے گیا۔ فریادوری اور کہا جاتا ہے "لَقِيْنَهُ اَوَّلَ
 ذَاتِ يَسْدِيْنِ" جس اس سے سب سے پہلے ملا۔
 "وَسَقَطَ فِي يَدَيْهِ" وہ پشیمان ہوا۔ "وَلَهُ يَدٌ
 يَنْصَأُ فِي هَذَا الْاَمْرِ": وہ اس کام میں ماہر
 کمال ہے "وَحَسْرَتُ النِّقَاصِ عَلَي يَدِهِ":
 قاضی نے اس کو تصرف سے منع کر دیا "وَاَعْطَى
 بِيَدِهِ": وہ مطیع و فرمانبردار ہوا۔ يَدُ الطَّالِبِ: پرندہ
 کے بازو۔ يَدُ الذَّخْرِ: مدت زمانہ۔ يَدُ الْفَأْسِ:
 کلہاڑے کا دست۔ يَدُ الْفُؤُوسِ: کمان کے دونوں
 جانب جو جھکائے جائیں۔ الْيَدُ الْعُلْيَا: دینے
 والا ہاتھ۔ الْيَدُ السُّفْلَى: مانگنے والا ہاتھ یا
 روکنے والا ہاتھ اور کہا جاتا ہے "السُّوْمُ عَلَيْهِ
 وَاجِدَةٌ": قوم اس کے اوپر ظلم کرنے میں یا دشمنی
 کرنے میں مشفق ہے "وَهَذَا فِي يَدِي": یہ
 میری ملکیت میں ہے۔ "وَالاَمْرُ بِيَدِ فُلَانٍ":
 معاملہ فلاں کے قبضہ میں ہے۔ وَيَسْدِي رَهِيْنَةً
 بِيَدِي: میں اس کا ضامن ہوں "وَلَا يَدِيْنُ لَكَ
 بِهَذَا": تم کو اس کی طاقت نہیں اور امثال عرب
 سے ہے۔ "يَدُ اللّٰهِ عَلَي الْجَمَاعَةِ": جماعت
 پر اللہ کی حفاظت ہے۔ "وَالْيَدُ لِفُلَانٍ عَلَي
 فُلَانٍ": فلاں کو فلاں پر طاقت و غلبہ ہے۔
 "وَبَعْتُهُ يَدًا بِيَدٍ": میں نے دست بدست بیچ کی
 "وَذَهَبُوا اِيَادِي سَبَاٍ او اَيْدِي سَبَاٍ": وہ سب
 پر اگندہ ہو گئے "يَدُ الْجَوْرَاءِ": چند ستارے۔
 الْيَدُ: بالتقدیر اِيَادِي وَيَدِي وَالْيَدَةُ: ہاتھ۔ ید میں
 لغات ہیں۔
 الْيَدِي: ماہر۔ حازق۔ فَوْتُ يَدِي: وسیع کپڑا۔
 عَيْشُ يَدِي: آسودہ زندگی (..... والیبدوی)
 ید کی جانب منسوب۔
 الْيَدِيَّةُ: ید کی تفسیر۔
 الْيَدِيَاءُ: ماہر عورت۔
 السُّوْدِي: احسان کرنے والا۔ انعام کرنے
 والا۔

المؤدَى اليه: جس پر انعام کیا جائے۔
 الميدي: جز سے ہاتھ کٹا ہوا۔ ظبي ميدي:
 جال میں اگلی ناک تک چھنی ہوئی برنی۔
 اليد: آگ۔
 السونوع: چوہے کے مانند ایک جانور جس کی
 اگلی ناک میں چھوٹی اور کچھلی بڑی اور ذم لمبی ہوتی
 ہے۔ ج يرابيع.
 الياوج: نکلن (دخيل)
 اليازوج: نکوار۔
 الياوجية: دست آور مجنون۔ ج آياوج:
 (دخيل)
 يروع يروع يروع: بڑا بڑا ہونا۔
 اليرع: گائے کا بچہ۔
 اليراع: جگنو۔ نزل۔ قلم۔ ہانسی جس کو چوہا ہا
 بجاتا ہے۔ بزدل۔ کمزور۔ بے عقل۔ چھوٹے
 چھوٹے جھیر بکری۔
 اليرع واليرع: بھگا۔
 اليراعة: جگنو۔ نزل۔ ج يرع چرواہے کی
 ہانسی۔ قلم۔ بیوقوف۔ بزدل۔ حجازی۔ شتر
 مرغ۔
 اليروع: خوف۔ ڈر۔
 يروق: یرقان کی بیماری والا ہونا۔
 اليرقان واليرقان: بھگتی کے لئے ایک آذت
 جس میں بھگتی پہلی پڑ جاتی ہے۔ یا کبڑے جو
 کھیت کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ایک مشہور بیماری کا
 نام جس سے بدن پھیلا ہوتا ہے۔
 اليروق واليراقوق: من اليرع والناس:
 یرقان زدہ۔
 اليرقانة: ولادت کی قوت۔ جانوروں کا اپنی
 صورت کو غضبناک اور خطرناک حالت میں
 کرنا۔
 اليرقع: پھر کی۔ سفید پکنے والی نگریاں ج
 يواع.
 اليرزون: ہاتھی کا دامخ۔ جانور کا پینہ۔ نر جانور
 کی مٹی۔
 يروتا يروتا الشئ: مہندی سے رنگنا۔
 اليرتا واليرتا واليرتاء: مہندی۔
 ييسر ييسر ييسرا وييسرا: نرم ہونا۔ مطيع ہونا۔

یَسْرَتُ الْمَرْفَأَةِ: آسانی سے جنتا۔ (یَسْرًا) جو اکلینا۔ الرَّجُلُ: بائیں جانب سے آنا۔ الْقَوْمُ النَّافَّةُ: جسے کر کے گوشت کو تقسیم کر لینا۔ یَسْرُ یَسْرُو یَسْرًا: کم ہونا۔ صفت یَسِيرٌ۔ یَسْرُ یَسْرُو یَسْرًا: ویسرو یَسْرُو یَسْرًا الْأَمْرُ: آسان ہونا۔ صفت یَسِيرٌ۔ یَسْرُ الشَّيْءُ لِلْفُلَانِ: آسان کرنا۔ تَوْفِيقٌ دینا (خیر و شرف دونوں کے لئے مستعمل ہے) یَسْرَتُ الْغَنَمِ: زیادہ دودھ دینے والی ہوتا۔ یَسْرُ الرَّجُلُ: آسانی سے بچے جسنے والی بکری اور ادنت والا ہوتا۔

أَيَسْرُ أَيَسْرًا: دولت مند ہونا۔ صفت مُوَسِّرٌ ج مَيَاسِيرٌ۔ أَيَسْرُ الرَّجُلُ: مطالبہ میں سختی نہ کرنا۔ أَيَسْرَتُ الْمَرْفَأَةِ: آسانی سے جنتا۔ يَسْرَةٌ مَيَاسِرَةٌ: نرمی برتنا۔ بائیں جانب سے آنا۔ يَسْرَةُ الشَّيْءِ: بائیں جانب لینا۔ بِالسَّقْوَمِ: باہم آسانی و نرمی کرنا۔ تَيَسَّرَ لِلْمُنْثَالِ: مقابلہ کے لئے تیار ہونا۔ الْبِلَادُ: سرسبز ہونا۔ السُّهَارُ: دن کا ٹھنڈا ہونا۔ (وَالْمَيَسِرُ) الْأَمْرُ: آسان ہونا۔ وَاسْتَيْسَرَ لَهُ الْأَمْرُ: تیار ہونا۔

تَيَسَّرَ: باہم آسانی کرنا۔ الرَّجُلُ: بائیں جانب سے کرنا۔ السَّقْوَمُ: بائیں جانب لینا۔ (وَالنَّسْرُ وَالنَّسْرُ) الْقَوْمُ: جوئے کے ذبیحہ کے گوشت کو باہم تقسیم کرنا اور کہا جاتا ہے "تَيَسَّرَتِ الْأَخْوَاءُ قَلْبَةً": خواہشات نے اس کے دل کو تقسیم کر لیا۔

النَّيْسِرُ وَالنَّيْسِرُ وَالنَّيْسَارَةُ: آسانی نرمی۔ تَوَاسَّرَ: ایک درخت کا نام جس کا دان بہت کالے رنگ کا ہوتا ہے اور خوشبو اچھی ہوتی ہے اس کو کھینے کے لئے دھاگے میں پرو لیتے ہیں۔

النَّيْسَارُ: آسانی۔ تَوَاسَّرَ: (وَالنَّيْسَارُ) بائیں۔ نَيْسِرٌ وَنَيْسِرٌ۔

النَّيْسِرُ: مہس۔ آسان۔ تیار کیا ہوا۔ جو اکلینے والوں کی جماعت نَيْسَارِیُّنَ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ أَعْسَرُ نَيْسِرًا": دونوں ہاتھوں سے یکساں کام کرنے والا مرد اور مَوْنَسٌ کے لئے

عَسْرًا نَيْسِرًا۔ النَّيْسَارُ: آسان۔ بائیں۔ جوئے کے ذبیحہ کے گوشت کو تقسیم کرنے کا تنظیم۔ قَصَائِي حَجَائِنُ۔

النَّيْسِرَةُ: ہاتھ کی غیر متصل کبیریں۔ دونوں ران کے داغ نَيْسَارِیُّنَ نَيْسِرَاتُ النَّيْسِرَاتِ: بلکی ہاتھیں۔

النَّيْسِرِيُّ ج نَيْسِرِيَّاتٍ وَالنَّيْسِرَةُ: بائیں۔ الْأَيْسَرُ: بائیں جانب والا۔ نَزْمٌ آسان۔

النَّيْسِيرُ: کم۔ نَزْمٌ آسان (وَالنَّيْسِيرُ) غالب۔ جوئے باز۔ نَجٌّ نَيْسِرٌ۔

النَّيْسِيرُ: جوا۔ تیروں کا جوا۔ ذبح شدہ جانور جن پر جوا اٹھایا جائے۔ زمانہ جاہلیت میں قاعدہ تھا کہ اونٹوں کو ذبح کرتے تھے اور اٹھا کھس یا دس حصے کرتے تھے اور پھر ان پر تیروں سے قرعہ ڈالتے تھے اور تیروں میں حصے والے اور بے حصے والے دونوں ہوتے تھے جس شخص کے نام حصہ والا تیر لکھا تھا وہ اتنا حصہ لے لیتا تھا اور جس شخص کے نام پر بے حصہ تیر لکھا تھا وہ اتنا دان بھگتا تھا۔

النَّيْسِيرَةُ: بائیں جانب۔ بائیں جانب کا دستہ فَوْجٌ مَيَاسِيرٌ (وَالْمَيَسِيرَةُ وَالْمَيَسِيرَةُ) آسانی۔ تَوَاسَّرَ۔

النَّيْسِيرُ: آسان کیا ہوا۔ آسان ج مَيَاسِيرٌ۔ الْيَاسِمِينَ وَالْيَاسِمُونَ: جینیلی۔

يَسِينٌ يَسِينُونَ يَسِينًا الْمَاءُ: شہیر ہونا۔ الْيَسْبُ وَالْيَسْفُ وَالْيَسْمُ: یشب ایک نہایت بیش قیمت پتھر۔

الْيَسْبُ وَالْيَسْفُ: یشب۔ الْأَيْسَرُ: سوکھی گھاس ج اِنَاصِرٌ۔

يَعْرَثُ تَبَعٌ وَيَعْرُثُ نَعَارًا الشَّاةُ أَوْ الْمَغْزَى: بکری کا مہینا۔

الْيَعْرُثُ وَالْيَعْرُثَةُ: بکری کا بچہ جس کو شیر اور بھیلے کے شکار کے لئے گڑھے کے پاس باندھ دیتے ہیں ج نَعَارٌ۔

الْيَعْسُوبُ: شہد کی کھپوں کا بادشاہ ج نَعَابِسِبٌ۔ الْيَعْقُودُ: ہرن۔

الْيَعْرُ: ایک جانور جو کتے سے چھوٹا اور بلی سے

بڑا ہوتا ہے اور اس کی ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں اور خاکستری رنگ کا ہوا ہے اور اس کو غوز نیز بھی کہتے ہیں۔

يَفْعُحٌ يَفْعُحٌ يَفْعُحًا الْوَالِدُ: لڑکے کی پند یا پر مارتا۔

الْيَافُوحُ وَالْيَافُوحُ: نومولود بچے کے سر کا وہ حصہ جو حرکت کرتا رہتا ہے ج يَوَافِئِحُ اور کہا جاتا ہے "صَدَعُ الْقَوْمِ يَافُوحُ اللَّيْلِ": جب کہ رات میں چلیں۔ "وَمَسَّ يَافُوحَهُ الشَّمَاكُ": جبکہ تکبر کرے "وَوَطِئَ فُلَانٌ يَوَافِئِحَ الْقُرُومِ": جبکہ سب لوگ سرداری کو تسلیم کر لیں۔

يَفْعُحٌ يَفْعُحٌ يَفْعُحًا وَيَفْعُحُ الْغَلَامُ: لڑکے کا بلوغ کے قریب پہنچنا۔ يَفْعُحُ الْجَبَلُ: پہاڑ پر چڑھنا۔

تَيَفَعُحُ الْغَلَامُ: لڑکے کا بلوغ کے قریب پہنچنا۔ الرَّجُلُ: نیل۔ پر چڑھنا۔ نِيلٌ پَرَّ آگ روشن کرنا۔ الْيَفْعُحُ وَالْيَفْعُحُ: بلند نیل۔ بلند زمین۔ ج يَفْعُحٌ يَفْعُحٌ: غلام یَفْعُحٌ: نوجوان لڑکا۔ ج اِنْفَاعٌ الْيَافِعُ: فا۔ غلام یَافِعٌ: نوجوان لڑکا۔ ج يَفْعَةُ وَيَفْعَانٌ. مَجْدٌ يَافِعٌ: بڑی بزرگی۔

الْيَفْعَةُ: لڑکا جو نوجوان ہو اور بلوغ کے قریب ہو۔ کہا جاتا ہے غَلَامٌ يَفْعَةٌ وَغُلَامَانٌ يَفْعَةٌ وَغُلَامَانٌ يَفْعَةٌ.

الْيَافِعَةُ يَافِعٌ: کاموں ج يَافِعَاتُ الْيَافِعَاتِ بِسَنِ الْأَمْسُورِ: طاقت سے باہر کام۔ بِسَنِ الْجِبَالِ: بلند پہاڑ۔

الْمَيَفِعَةُ: بلند زمین ج مَيَافِعٌ. الْيَفْسُ: بہت بوڑھا۔ بَعِيرٌ فَرُوتٌ۔ بوڑھا تیل صاحب فنون ج يَفْنٌ.

يَقُّ يَقُّ يَقُّوقَةً: سفید ہونا۔ الْيَقُّوقُ: روٹی۔ کھجور کے اندر کا سفید گودا۔ ایک کڑے کو نشفقہ کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے الْيَقُّوقُ يَقُّوقٌ وَيَقُّوقٌ: بہت سفید ج يَقُّوقٌ.

الْيَاقُوتُ: ایک بیش قیمت پتھر اور حدیثاً فَوْقَةُ ج يَوَالِقِيَّتٌ.

الْيَقْطِطِيُّنَ: بغیر سنے والی باتات جیسے کھیر انگری وغیرہ۔ عام طور پر اس کا استعمال گول کدو کے لئے ہوتا ہے واحد يَقْطِطِيَّةٌ.

يَقْطُطٌ يَقْطُطٌ يَقْطُطًا وَيَقْطُطٌ يَقْطُطًا: بیدار

یاقوت

یاقوت

یاقوت

یاقوت

یاقوت

یاقوت

<p>بِهَذَا الْيَوْمِ: تم کو میں نے اسی دن کے لئے ذخیرہ بنایا تھا آہام و حج آہاوسم: آیام اللہ: خدا کے دن یعنی خدا کے انعامات یا سزا میں آیام الغروب: جنگ ہائے عرب۔ ابن الأیام: زمانہ شناس۔ "ابن الیوم": زمانہ ساز۔ کہا جاتا ہے "یوم الیوم": مبینہ کا آخری دن۔ وَیَوْمَ الْيَوْمِ وَیَوْمَ رَوْحٍ وَذَوَابِام وَذَوَابِاوسم وَذَوَابِایم: سخت طویل دن۔</p>	<p>الیهضاء: ایہم: کامؤنٹ۔ بے پائی اور بے نشان بیابان۔ سخت سال۔ مضبوط اونٹنی اَوْض: ہضضاء: بے نام و نشان وہ بے چراگاہ زمین۔ یسنون یہم: بے گھاس و پائی اور بے درخت والے سال۔ یفؤد: دیکھئے مادہ ہود۔ یسوح و یسوحی: آفتاب کے ناموں میں سے ہے۔ کہا جاتا ہے "جعلک اللہ اغضز من نوح وانور من یوح": اللہ تعالیٰ عمر نوح علیہ السلام کی عمر سے بھی زیادہ دراز کرے اور آفتاب سے زیادہ روشن کرے۔</p>	<p>الینوع: خون کی سرخی۔ الینع: سرخ مبرہ۔ واحدینعة: عقیق کی ایک قسم۔ الینم: ایک قسم کی نباتات واحدینمة۔ ایتھت ایھاتا: اللعیم: گوشت بدبودار ہوتا۔ استھیز: بے عقل ہوتا۔ فی الامیر: کسی کام میں مدت گزارنا۔ بالامیر: یقین کرنا۔ الینسر والیہسر: کشادہ جگہ۔ کسی کام میں مدت گزارنی۔ الیہسر: مراب۔ سخت پتھر۔ لجاجت جھوٹ اندرائن۔ زہر۔ الیہیزی: بہت پائی۔ باطل۔ الیسنسیر: فاسد۔ بہت لجاجت کرنے والا۔ الیہفسوف: بزدل۔ بیوقوف۔ چھیل زمین۔ تیز قلب۔ الیہم: دیوانگی۔ جنون۔</p>
<p>الیونان: یونانی لوگ۔ ایک ملک کا نام۔ یونانی: یونان کا رہنے والا۔ یونانیون: الیابوی: یا کی جابب منسوب۔ الیہشمیة: خود۔ الیہشمیة: الیاء: لکھنا۔</p>	<p>الیسوذ: سیاہ خاکستری بلوری رنگ کا جسم جس کا دھواں تیزی سے پھیل جاتا ہے۔ الیوم اشمس الحقیقی: وہ وقت جب سورج خط جبرہ سے دو فوج گزرتا ہے۔ یساوسہ نیواما ومیساوسمة: دنوں کے لحاظ سے معاملہ کرنا۔ الیوم: دن۔ وقت۔ کہا جاتا ہے "ذخروکک</p>	<p>الایہیم: دیوانہ۔ مجنون۔ خشکی۔ بلند پہاڑ۔ بہرا۔ دلیر چہتا پتھر بے نشان شہر لیل ایہم: بے تاروں والی رات۔ مؤنٹ ہضضاء: یہم۔</p>

مشت

عربی کی ضرب الامثال واقوالِ حکمت

۱

کے منہ پر رہتا ہے۔

يَأْتِيكَ كَلُّ غَيْدٍ بِمَا فِيهِ

کل آئندہ تیرے تیرے پاس اپنے اندر والا لائے گی۔

یعنی وقت کے ساتھ ساتھ نفع یا نقصان آتا ہی ہے۔

وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُوَرِّدْ

اور تیرے پاس وہ خبریں لائے گا جس کو تو نے راہ خرچ نہیں دیا۔

یعنی توقع کے بغیر معلومات مہیا ہوتی رہتی ہیں۔

لَا تَبِيكُ حَتَّى يَنْوِبَ الْقَارِظَانِ

(سلم نامی درخت کے) پتوں کو توڑنے والے دو آدمیوں کے آنے

تک میں تیرے پاس نہیں آؤں گا۔

یہ ان کے لیے بولا جاتا ہے جنہوں نے کسی نہ کسی بہانے قطع تعلق کر

ہی لیتا ہے۔

لَا تَبِيكُ بَيْنَ الْحَسَلِ

(میں تیرے پاس اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک کہ گوہ کے

دانت نہ ٹوٹ جائیں) مطلب یہ ہے کہ کبھی نہیں آؤں گا کیونکہ

حاصل گوہ کو کہتے ہیں اور گوہ کے دانت ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔

كُلُّ أُنْتِ قَرِيْبٌ

(ہر آنے والی چیز نزدیک ہے) یعنی جو چیز آ کر رہتی ہے وہ خواہ کتنی

ہی دور ہو، قریب ہی ہے اور ہر لحظہ مزید قریب آ رہی ہے۔

ذَاكَ أَخَذَ الْأَخْذَيْنِ

یہ دو دیکھاؤں میں کا ایک ہے یعنی کھمڑی اشیاء میں سے منتخب چیزوں

کا انتخاب۔

أَخَذَهُ بِرُغْبَةٍ

اس کو اس نے رتی سمیت لے لیا۔

یعنی اصل کے ساتھ (فرع) متعلقہ چیزیں بھی ہاتھ آتا۔

قَدْ يُؤْخَذُ الْجَارُ بِذَنْبِ الْجَارِ

کبھی پڑوسی کے جرم میں پڑوسی گرفتار ہو جاتا ہے۔

خُذْ مِنَ الرُّضْفَةِ مَا عَلَيْهَا

إِبِلِي لَمْ أَبِغْ وَلَمْ أَهْبْ

میں نے اپنا اونٹ نہ فروخت کیا نہ تحفتاً دیا۔

ناحق جھگڑا کرنے والے ظالم سے یہ مثل بنائی گئی ہے۔

يَا إِبِلِي غَوْدِي إِلَى مَبَارِكٍ

اے میرے اونٹ اپنے مقام پر واپس پلٹ جا۔

ایسا شخص جو فائدہ والا کام ترک کرنا چاہے۔

أَنَّى عَلَيْهِمْ ذُوْأَنِي

ان پر اسی طرح مصیبت آئی جیسا کہ آیا کرتی ہے۔

یعنی انسانوں پر ملی جلی تکالیف والی کیفیات آتی جاتی رہتی ہیں

أَتَاكَ زَيْبَانٌ بَلْبِيَه

(بی کر سیراب ہو گیا تو اپنا دودھ تیرے پاس لایا) یہ مثال اُس وقت

دی جاتی ہے جب کوئی شخص کسی چیز کو کھنی ہونے پر بہہ نہ کرے بلکہ

اپنی ضرورت سے زائد ہونے کی بناء پر کسی کو دے۔

أَتَتْكَ بَخَائِنٌ رَجُلَاهُ

(خائن کو خود اس کے قدم تمہارے پاس لے آئے) مطلب یہ ہے

کہ برائی خود کرنے والے پر ہی لوٹتی ہے۔ گیدڑ کی موت آتی ہے تو

وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ اسی موقع پر ائتک بحالن رجلاه بھی

بولتے ہیں۔ یہ ایسے شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو برائی کی طرف چلتا

ہے اور اس میں جتلا ہو جاتا ہے۔ حسانن: قریب الموت شخص۔ یہ

مثالیں ایسے موقع پر بولی جاتی ہیں جب آدمی اپنی برائی کا بدلہ دُنیا

میں ہی پالے۔

أَتَتْكُمْ فَايْلَةُ الْأَفَاعِي

(تمہارے پاس سانپوں کا پیش خیمہ آچکا ہے) یہ اس وقت بولا جاتا

ہے جب بڑے شر سے پہلے اس کے مقدمے کے طور پر چھوٹا شر آچکا

ہو۔ فسالیة: ایک دھاری دار کپڑا ہے جو سانپ اور بچھوؤں کے بل

پتھر پر جوگا ہے لے لو۔ یعنی کجوس سے جو لے جائے غنیمت جانو۔

خُذْ مِنَ الْأَمْرِ بِقَوَابِلِهِ

(معاملہ کو اس کے مقدمات کے ساتھ لو) معاملے کے پیش آنے سے پہلے اس کی تدابیر اختیار کرو۔ اس میں باء بمعنی فی ہے یعنی بقوابلہ بمعنی فی بقوابلہ ہے۔

خُذْ مِنَ الذَّهْرِ مَا صَفَى وَ مِنَ الْعَيْشِ مَا كَفَى

زمانہ سے وہ چیز لو جو پاک ہو اور روزی اتنی جو کفایت کرے۔

خُذْ مَا طَفَّ لَكَ

جو چیز نزدیک ہو اس کو حاصل کرنا۔

لَا تُؤَخِّرْ عَمَلَ الْيَوْمِ لِغَدٍ

آج کے کام کل پر مت ڈالو۔

آخِرُ الدَّاءِ الْكَلْبِيُّ

(مرض کی ابتدا داغ دنیا ہے) مرض کے انتہائی حد تک پہنچ جانے کے وقت بولتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مریض کا ہر قسم کی دوا سے علاج کیا جاتا ہے مگر کوئی دوا اس کو اس نہیں آتی۔ تب آخری علاج کے طور پر دانا جاتا ہے اس سے بھی تندرست نہ ہو تو پھر کوئی علاج باقی نہیں رہتا۔ اچھا ہو تو ہو اور نہ وہی موت ہے۔

آخِ الْأَخْفَاءِ ذَاهِبِ الْأَعْفَاءِ

(ساتھیوں سے بھائی چارہ کے ساتھ پیش آؤ اور دشمنوں سے ظاہری اخلاق کے ساتھ ملو) اسی طرح ایک قول ہے: خالص المؤمن و خالص الفاجر: (مؤمن سے (ولی) اخلاص سے اور فاجر سے ظاہری اخلاق کے ساتھ ملو)۔

أَخْوَكُ أُمَّ الذَّنْبِ

(وہ تیرا بھائی ہے یا بھیڑیا) جو شخص تیری ہمدردی کے لئے آیا ہے وہ تیرا بھائی ہے یا تیرا چھپا دشمن۔ اسی طرح بولا جاتا ہے اصحاب انت فار کن الیک ام عدو فاحذر منك (آیا تو دوست ہے کہ تیری طرف مائل ہوں یا دشمن ہے کہ تجھ سے عافیت مانگو)۔

أَخْوَكُ مِنْ صَدَقِكَ

تیرا بھائی وہ ہے جو تجھ سے خالص محبت کرے۔

أَخْوَكُ مِنْ وَاسِكَ بِنَسَبٍ لِأَمْنٍ وَاسِكَ بِنَسَبٍ

تیرا بھائی وہ ہے جو تجھ سے مال کے ساتھ ہمدردی کرے فقط قرابت داری کے ساتھ تعاون نہ کرتا رہے یعنی مالی تعاون کرنا بھائی چارہ ہے اور قرابت کا ذکر کرنا دوسرے بھائی کے لئے (اکثر) سود مند نہیں۔

أَنْ أَخَا الْهَيْجَاءِ مَنْ يَسْمَعُ مَعَكَ

تیرا بھائی وہ ہے جو تیری مدد کرے۔

أَنْ أَخَاكَ مِنْ أَسَاكَ

(تیرا بھائی وہ ہے جو تیری اعانت کرے)۔ آسیت فلانا بمعنی او غمیرہ: ایسے موقع پر کہا جاتا ہے جب کسی شخص کو مال دے کر اپنے برابر کر لیا جائے اور اپنے نفس پر اس کو ترجیح دی جائے۔ یہ بھائیوں کے ساتھ احسان کرنے کیلئے اُبھارنے پر بولا جاتا ہے۔

يَا خَيْبَكَ عَلَيْنِكَ مِثْلَ الَّذِي لَكَ عَلَيْهِ

(تیرے بھائی کا تجھ پر وہی حق ہے جو تیرا اس پر ہے)۔

رُبَّ أَخٍ لَمْ تَلِدْهُ وَالِدَةٌ

(بہت سے بھائی ایسے ہیں جو ماں جنمے نہیں ہوتے) سچے دوست کے لئے کہا جاتا ہے جو بعض اوقات حقیقی بھائی سے بھی زیادہ مشکلات میں کام آتا ہے۔

أَذْبُ الْمُرْءِ خَيْرٌ مِنْ ذَهَبِهِ

آدمی کا علم اس کو اس کے سونے سے زیادہ سود مند ہوتا ہے۔

أَلَا ذَبٌ مَالٌ وَاسْتِعْمَالُهُ كَمَالٌ

علم ایک دولت ہے اور اس سے کام لینے میں کمال ہے۔

يَعْمُ الْمُؤَدَّبُ الذَّهْرُ

زمانہ سب سے اچھا ادب سکھانے والا (استاد) ہے۔

مَازِنَةٌ لِأَخْفَاؤَ

(حاجت سبب ہے نہ کہ اکرام) یعنی اکرام و احترام ضرورت کی بنا پر ہے محبت کی وجہ سے نہیں۔

الْأَرْضُ الْوِاطِنَةُ تَشْرِبُ مَاءَ هَا وَمَاءَ غَيْرِهَا

گوڈی کی ہوئی نرم زمین اپنا پانی بھی پی جاتی ہے اور دوسرے کا بھی۔ بخند الو ہا گرم کو کھا جاتا ہے۔

بِالْأَرْضِ وَلَدُنْكَ أُمَّكَ

(تیری ماں نے تجھے زمین پر ہی تو جانا ہے) "آدمی خاک کا پتلا ہے"۔ غرور و تکبر سے روکنے اور انسان کو اس کی حیثیت یاد دلانے کے لئے بولا جاتا ہے۔

لِلْأَرْضِ مِنْ تَحْسِ الْكِبْرَامِ نَصِيبٌ

سناوت کرنے والوں کی طرف سے ان کے پیالے میں زمین حصہ لیتی ہے۔

وَفِي الْأَرْضِ لِلْخَيْرِ الْكِبْرِيهِمْ مَنَادِحٌ

زمین میں آزاد عزت دار کے لئے ذرائع آمدن بھرے پڑے

ہیں۔

لاَاضِلٌ لَهُ وَلَا فَضْلٌ

اس کے پاس نہ تو خاندانی عزت ہے اور نہ حسن کلام۔

اصل کا اطلاق حسب و نسب پر ہوتا ہے۔

الْأَصِيلُ يَجُودُ

شریف آدمی سخاوت کیا کرتا ہے۔

الْأَصِيلُ يَفْعَلُ بِأَصِلِهِ

شریف اپنی شرافت کے مطابق عمل کرتا ہے۔

أَفَى الْعِلْمِ الْيَسِيرَانِ

بجول علم کی مصیبت ہے۔

أَكَلَ عَلَيْهِ الدَّهْرُ وَشَرِبَ

زمانے نے اس پر کھایا پیا ہے۔

یعنی بس عمر پانے والے نے دنیا کی اُدھی بچھ دیکھی۔

أَكَلْتُمْ تَمْرِي وَعَصِيصَتِي أَمْرِي

تم نے میری کھجوریں کھائیں اور میری ہی نا فرمائی کی۔

یعنی جس تھالی میں کھانا اسی میں سوراخ کرتا۔

أَكْلٌ لِحَبِيئِي وَلَا أَدْعُهُ لِأَكْبَلِ

میں اپنا گوشت خود کھاؤں اور دوسرے کھانے والے کے لئے نہ

چھوڑوں گا۔ یہ مثل اس پر ہے جو نفع خود لے اور بوجھ دوسرے پر

ڈالے۔ یعنی میںنا بیٹھا باپ بپ کڑوا کر ڈالتھو۔

يَأْكُلُ الضَّرْبُ وَأَرْجَمُ بِالضَّرْبِ

(کھجور وہ کھا رہا ہے اور گھٹلیاں مجھے ماری جا رہی ہیں) اس شخص

کے لئے بولا جاتا ہے جو نفع خود اٹھائے اور مشقت دوسروں کیلئے

چھوڑ دے۔

يَأْكُلُنِي سَمْعٌ وَلَا يَأْكُلُنِي مَخْلَبٌ

مجھے ایک درندہ کھا رہا ہے کتا نہیں کھا رہا ہے۔

يَأْكُلُهُمْ بَضْرُوسٌ وَيَطْوُهُمْ بِظُلْفِ

(اس کو ڈازھوں سے چپاتا ہے اور سُم سے پکھلتا ہے) محسن کے ساتھ

برائی کرنے کے وقت کہتے ہیں۔

يَأْكُلُ بِالضَّرْبِ الَّذِي لَمْ يُخْلَقِ

وہ اس ڈازھ کے ساتھ کھاتا ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوئی۔

یعنی نیکی کی تعریف سننے والے پر کہا جاتا ہے۔

عَبْرِي يَأْكُلُ الدَّجَاجَ وَأَنَا أَقْعُ فِي السِّيَاحِ

دوسرے مرغیاں کھاتے رہیں اور میں جھاڑی میں پڑا رہوں۔

أَكْلٌ وَحَمْدٌ خَيْرٌ مِنْ أَكْلٍ وَصَنْبٍ

کھانا اور تعریف کرنا کھانے اور خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ محسن کی

جائز تعریف پر رغبت دلانا۔

أَكْلًا وَذَمًّا

(کھانا اور پھر مذمت بھی کرنا) اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی چیز

سے نفع بھی اٹھایا جائے اور اس کی مذمت بھی کی جائے حالانکہ وہ

برائی کی مستحق نہ ہو۔ 'کھانا اور کیزے نکالنا'۔

رُبُّ أَكْلَةٍ تَمْنَعُ مِنْ أَكْلَابِ

کبھی ایک لقمہ بہت سے لقموں سے روک دیتا ہے۔ کیونکہ کبھی ایک

لقمہ بیمار کر دیتا ہے اور پھر بہت سی چیزوں سے انسان پر بیہز کرتا ہے۔

ہے۔ پر بیہز پر آمادہ کرنے کے لئے بولتے ہیں۔

أَكْلٌ مِنْ خُبْرٍ

مچھلی سے بھی زیادہ کھانے والا۔ مچھلی کے تالاب میں وقت بے

وقت زیادہ خوراک ڈال دی جائے تو وہ کھا کھا کر ہی بلاک ہو جاتی

ہے۔

أَكْلٌ مِنَ الرَّجْحِي

چکی سے زیادہ کھانے والا۔

أَكْلٌ مِنَ الشُّوسِ

گھن سے زیادہ کھانے والا۔

أَكْلٌ مِنْ ضَرْبِ

داڑھ سے بھی زیادہ کھانے والا۔

أَكْلٌ مِنَ النَّارِ

آگ سے بھی زیادہ کھانے والا۔

حَتَّى يُؤَلَّفَ بَيْنَ الضَّبِّ وَالنَّوْنِ

(یہاں تک کہ گوہ اور مچھلی جمع ہو جائیں۔ نون مچھلی کو کہتے ہیں مچھلی

اور گوہ ہرگز جمع نہیں ہو سکتیں کیونکہ مچھلی پانی میں رہتی ہے اور گوہ کبھی

پانی نہیں پیتی اسی طرح حتیٰ یسود الضب بولتے ہیں کیونکہ گوہ کو

پانی کی ضرورت نہیں تیلیق بالحال مراد ہے۔ جیسے جب تک آگ

پانی یا شیر بکری جمع نہ ہوں اور ہرگز جمع نہ ہوں گے۔

أَلْفٌ مِنْ جَمَامٍ مَكَّةَ

(مکہ کے کبوتر سے بھی زیادہ مانوس) کیونکہ مکہ میں نہ کبوتر کا شکار کیا

جاتا ہے اور نہ اس کو کوئی پریشان کرتا ہے۔

أَلْفٌ مِنَ الْحَمِيِّ

بخار سے زیادہ مانوس۔

بخار کا وقفہ وقفہ سے اترنا چڑھنا۔

آلف میں کلب

کتے سے زیادہ مانوس۔

کتا اپنے وطن کو ترک کر کے مالک کے ساتھ جاتا ہے۔

اُمّ فرشتہ فآنا مت

ماں نے بستر بچھا اور سلا دیا۔

ماں کی طرح مشفق سربراہ کی تعریف میں کہا جاتا ہے۔

اُمّ الاخرس تعرف ببلغات الخورسان

گوگٹے کی ماں گوگٹے کی رمز شناس ہوتی ہے۔

اُمّ سفنک الغیل من غیر حیل

(وہ ایسی ماں ہے جس نے بغیر حمل کے بچھے حالت حمل کا دودھ

پلایا ہے۔ غیل: اس دودھ کو کہتے ہیں جو ماں کے حاملہ ہونے کی

حالت میں بچہ پنے۔ یہ دودھ بچہ کو مضرت ہوتا ہے۔ یہ ایسے شخص کے

لئے کہا جاتا ہے جو پہلے تو کسی کو مقرب بنالے اور پھر بغیر کسی تصور

کے اس کو نکال دے اور زیادتی کرے۔

الی ایتہ ینلہف اللہفان

(فریاد کرنے والا اپنی ماں ہی کے پاس فریاد کرتا ہے) آدمی اپنے

اہل اور بھائیوں ہی سے اعانت چاہتا ہے۔ کھفان: مصیبت زدہ

اور بتائے غم کے متعلق کہا جاتا ہے۔

الامر یغرض ذونہ الامر

ایک کام کے سامنے دوسرا کام رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔

یعنی انسانی زندگی میں مشکلات یکے بعد دیگرے آتی رہتی ہیں۔

امر منکبک لا امر مضحک بک

رلانے والی باتوں پر غور کرو ہنسانے والی باتوں پر توجہ نہ دو۔

یعنی جو برائیوں سے آگاہ کرے اس پر دھیان دو اور جو بے خوف

کرے اس کو چھوڑ دو۔

لا امر ما جدد قصیر انفہ

کسی سازش کے لئے قصیر نے اپنی ناک کاٹی۔ یہ زبا کا مقولہ ہے۔

اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو فقط اپنا کام نکالنے کے لیے حیلہ

سازی کرے۔

لا امر ما یسود من یسود

(جو سردار بنتا ہے کسی وجہ ہی سے بنتا ہے) کوئی شخص استحقاق ہی کی

وجہ سے قوم کا سردار بنا کرتا ہے۔ یعنی کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوتی ہی ہے

تو انسان سردار کہلاتا ہے۔

لیس للامور بضاجب من لم ینظر لی العواقب

(جو شخص انجام پر نظر نہ رکھے وہ معاملات پر حاوی نہیں ہو سکتا)۔

الاییز من لا ینصرف الاییز

(امیر وہ ہے جو کسی دوسرے امیر کو نہ جانے)۔

یا حنبذا الامازة ولو علی الحجارة

حکومت کس قدر بھلی ہے اگر چہ پتھروں پر۔

تأمل الغیب عیب

عیب تلاش کرنا بذات خود ایک عیب ہے۔

من امین الزمان خانہ

جس نے زمانہ کو امانت دی اس کی اس نے خیانت کی۔

یعنی زمانہ پر بے خوف مت ہو۔

آمن من خمام بلہ

(مکہ کے کبوتر سے بھی زیادہ مامون) کیونکہ نہ اس کو شکار کیا جاتا

ہے اور نہ پریشان۔ آمن امن سے مشتق ہے۔

أمن من الأرضی

بہت امانت دار شخص۔ زمین سے زیادہ امین کیونکہ زمین میں جس

جنس کی امانت رکھی جاتی ہے اسی جنس کو اگا دیتے ہے۔

المؤمن بشوہ فی وخبہ وحزنہ فی قلبہ

مومن کی کشادہ روئی اس کے چہرے پر ہوتی ہے اور اس کا غم دل

میں چھپا ہوتا ہے۔

الایناس قبل الایناس

مانوس کرنا دودھ دو بنے سے پہلے ہے۔ یعنی کسی سے کام لینا متسوو

ہو تو نرم رویہ اختیار کرنا ہوگا۔

لیس علی الإنسان إلا ما ملک

انسان پر وہ چیز فرض ہے جو اس کے قبضہ میں ہے۔

الإنسان عند الإحسان

انسان احسان کا غلام ہے۔

الإنسان ابن یومہ

(انسان اپنے دن کا بیٹا ہے) یعنی وقت کا بندہ۔

الإنسان بالتفکیر واللہ بالتدبیر

انسان غور و فکر میں مشغول ہے اور خدا تعالیٰ تدبیر میں ہے "تدبیر کند

بندہ تقدیر ز من خندہ"

کل انسان وھمہ

ہر شخص اپنے غم کی تدبیر خود بہتر کرتا ہے ہر شخص اپنا کام خود ہی جانتا

درخت کی ابتداء گھٹلی سے ہوتی ہے۔

لَسْتُ أَوَّلَ مَنْ غَرَّه السَّرَابُ
تو پہلا شخص نہیں جس کو سراب سے دھوکا ہوا۔

إِيْوَانِ كَسْرَى

نوشیروان محل:

یہ مثل عجیب و غریب نادر الوقوع پر بولی جاتی ہے۔

یہ محل بیس سال میں تعمیر ہوا تھا۔



أَلَيْسُوا أَبْقَى مِنَ الرِّشَاءِ

(کنواں رشتی سے زیادہ باقی رہتا ہے) رشاء: ذول کی رشتی۔

كَأَلْبَاحِثٍ عَنِ حَنْفِهِ بِظُلْفِهِ

اپنے ہی کھر سے اپنی موت کو کھودنے والے کی طرح۔ اپنے پاؤں

پر آپ کلبھاری مارتا۔ اپنی ہلاکت کا خود سبب بنتا۔

كَأَلْبَاحِثٍ عَنِ الْمُدْيَةِ

(چھری کھودنے والے کی طرح) "اپنی موت بلانا" ایسے شخص کے

لئے بولا جاتا ہے جو ایسی چیز تلاش کرے جو خود اس کے لیے باعث

ہلاکت ہو۔

أَبْخَرُ مِنْ أَسَدٍ

شیر سے منہ کی بد بو والا۔

أَبْخَرُ مِنْ صَقْرٍ

شکرہ سے زیادہ منہ کی بد بو والا۔

أَبْخَرُ مِنْ فَهْدٍ

چھتے سے زیادہ منہ کی بد بو والا۔

بَخْرُ الْقَمِ

(منہ سے بد بو پیدا ہونا) گندہ وہن۔

أَبْعَلُ مِنْ مَادِرٍ

(مادر سے بھی بخیل) مادر بنی ہلال کا ایک شخص جو بخیل میں مشہور تھا۔

هَذِهِ بَيْلُكَ وَالْبَادِي أَظْلَمُ

یہ سزا پہلے عمل کے بدلہ میں ہے اور ابتداء کرنے والا ہی ظالم ہے

یعنی بدی کرنے والے کو اس کی سزا بھی دی جاتی ہے اور بدی کی

ابتداء کرنے کی وجہ سے ظالم بھی پکارا جاتا ہے۔

أَبْدَى الصَّرِيخِ عَنِ الرَّغْوَةِ

خالص دودھ جھاگ سے الگ ہو گیا۔

ہے یا ہر شخص اپنی مصیبت میں مبتلا ہے۔

أَنْفٌ فِي السَّمَاءِ وَاسْتٌ فِي السَّمَاءِ

ناک پانی میں اور در آسمان میں ہے۔

یعنی کم مرتبہ انسان بلندی دعویٰ کرتا ہے۔

أَنْفُكَ مِنْكَ وَإِنْ كَانَ أَدْنَى

تیری تیری ہی ہے اگرچہ وہ پانی بہاتی ہو۔

یعنی تیری قوم کے تعمیر لوگ تیری مدد کے محتاج ہیں۔

أَنْفُكَ مِنْكَ وَإِنْ كَانَ أَجْدَعُ

مخلوق حوادث کا شکار ہے۔

یعنی سب نے فنا ہوتا ہے۔

أَلَا نَامُ فَرَانِسُ الْأَيَّامِ

(مخلوق زمانہ کا شکار ہے) آخر کار زمانہ سب کو ختم کر دے گا۔

مَنْ نَأْتِي أَذْرَكَ مَا تَمَنَّى

(جس نے آہستگی سے کام لیا اس نے اپنی مراد پائی) صبر کا پھل میٹھا

ہوتا ہے۔

كُلُّ إِبْنٍ بِالْبَدْيِ فِيهِ بَرُوحٌ

(ہر برتن سے وہی نیکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے) کبر شرح کے بجائے

بصیح بھی مروی ہے مطلب ایک ہی ہے۔

عَلَى أَهْلِهَا تَجْنِي الْبِرَاقِشُ

براقش (کتیا) اپنے ہی مالکوں کو تباہ کرنے والی ہے۔

یعنی آدمی کا عمل اس کے لئے نقصان دہ ہوتا ہے۔

آفَةُ الْمَرْوَةِ خُلْفُ الْوَعْدِ

مروت پر مصیبت وعدہ خلافی ہے۔

آفَةُ الْجُودِ الْإِسْرَافُ

بات پر مزید مصیبت دروغ گوئی ہے۔

آفَةُ الْحَدِيثِ الْكُذْبُ

سخاوت پر آفت فضول خرچی ہے۔

آفَةُ الْعِلْمِ النِّسَانُ

علم کی آفت نسیان ہے۔

أَوَّلُ الْعَضْبِ جُنُونٌ وَآخِرُ نَدَمٌ

منہ کی ابتداء جنون اور انتہا ندامت پر ہے۔

أَوَّلُ الْغَيْثِ قَطْرٌ

بارش کی ابتداء بوند ہے۔ (یعنی قطرہ قطرہ ہی دریا بنتا ہے)۔

أَوَّلُ الشَّجَرَةِ التَّوَاتُ

كَلْ مَبْدُولٌ مَسْلُوبٌ

زیادہ استعمال کی گئی چیز سے اکتاہٹ و بیزاری ہو ہی جاتی ہے۔

بِالْبُرِّ يُسْتَعْبَدُ الْحُرُّ

اچھے سلوک سے آزاد آدمی کو بھی غلام بنایا جاسکتا ہے۔

بَرِيثٌ قَابِيَةٌ مِنْ قُوبٍ

(انڈا چوزہ سے بے تعلق ہو چکا ہے) قانیہ: انڈے کو اور قوب:

چوزہ کو کہتے ہیں یعنی "بات بہت دور ہو گئی"۔ "تیر کمان سے نکل

چکا" یا "اب پھٹتے کیا ہوتے جب چڑیاں چل گئی کھیت"۔

بَرْدٌ عَدَاةٌ غَرُّ عِبْدًا مِنْ ظَمِيًا

صبح کی ٹھنڈک نے آدمی کو پیاس کے بارے میں فریب دیا۔ مقولہ

ہے کہ ایک شخص ٹھنڈی صبح میں جانور لے کر جنگل میں گیا اور پانی

ساتھ نہ لیا اور پھر بجتی ہوئی دوپہر میں پیاس کی شدت سے ہلاک ہو

گیا۔ یعنی پیش بندی کرنا اور مارا جانا۔

أَبْرَدٌ مِنْ غَيْبِ الْمَطَرِ

بارش کے اگلے دن سے بھی زیادہ سرد۔ غیب الماطر: دراصل غب

یوم الماطر ہے۔)

أَبْرَدٌ مِنْ غَضُوبٍ

اولے سے بھی زیادہ ٹھنڈا۔

أَبْرَدٌ مِنْ فُلْحَسٍ

فلحس (ایک سردار کا نام جو بغیر جہاد کئے مال غنیمت کا طالب ہوتا

تھا) سے بھی زیادہ حق طلب کرنے والا۔

بِرْضٍ مِنْ عَيْدٍ

بڑے خزانے سے تھوڑا۔

إِنَّمَا هُوَ كَمَبْرِقِ الْخُلْبِ

(وہ تو دھوکہ دینے والے بھلی کی طرح ہے) یعنی بھلی چمکتی ہے مگر

بارش نہیں ہوتی "جو گرتے ہیں وہ برستے نہیں"۔

مَا مَثَلُ بَارِقَةٍ تَخْوَدُ بِمَائِهَا

(امید ہے کہ بھلی والا بادل وعدہ خلافی نہیں کرے گا) یعنی بارش کی

امید پوری ہوگی۔ احسان کی امید میں بولا جاتا ہے۔

عَسَى الْبَارِقَةُ لَا تَخْلِفُ

ہر بھلی والا بادل پانی نہیں برسایا کرتا۔

الَّذِي لَا يَبْصُرُ مِنَ الْبَصْرِ نَالٌ يَكُونُ أَعْمَى

جو شخص چھٹی میں سے نہیں دیکھ سکتا اندھا ہوتا ہے۔

أَبْصُرُ وَعَ قَلْعُكَ

دیکھ اور اپنے لاشری والے تیر پر نشان لگا۔

مخاطب کو نفع یا نقصان کی طرف متوجہ کرنا۔

أَبْصُرُ مِنْ عِقَابٍ

عقاب سے زیادہ تیز نظر۔

أَبْصُرُ مِنْ نَسْرِ

(گدھ سے بھی زیادہ تیز نظر)

أَبْصُرُ مِنَ الْوَطْوَاطِ فِي اللَّيْلِ

رات میں چکا ڈڑ سے بھی زیادہ تیز نظر۔

أَبْصُرُ مِنْ زُرْقَاءِ الْبَيْمَامَةِ

بیمامہ کی زرقاء سے بھی زیادہ تیز نظر۔ زرقاء جدیس قبیلے کی عورت

تھی جو تین منزل کے فاصلے سے دیکھ لیتی تھی۔

لَا يَبْصُرُ خَجْرَهُ

اس کے پتھر (دل) کو پسینہ (رحم) نہیں آتا۔

یعنی شدید کنجوس سے خیر کی توقع نہیں۔

أَبْطَأَ مِنْ غُرَابِ نُوحٍ

نوح کی کوءے سے بھی زیادہ دیر کرنے والا۔

حضرت نوح نے کوءے کو پانی اترنے کی خبر لینے کے لئے بھیجا مگر وہ

واپس نہ آیا۔

أَبْطَشَ مِنْ دُونَسِرٍ

نعمان بن منذر کے لشکر۔ دوسرے سے زیادہ تیز حملے والا۔

بَطْنِي عَطْرِي وَسَابِرِي ذُرِّي

(صرف میرے پیٹ پر عطرمو اور میرے باقی حصہ بدن کو چھوڑ دو)

ایسے شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو اہم چیز کو چھوڑ کر غیر اہم کو اختیار

کرے۔

أَبِطْنَةُ تَامِنُ الْقَطْنَةَ

(زیادہ کھانا ذہانت کو ختم کر دیتا ہے۔ افسن الفصیل: اس وقت

بولتے ہیں جب اونٹ کا بچہ اونٹنی کے تھن کا سارا دودھ پی لے۔

مطلب یہ کہ مال و دولت نے عقل خراب کر دی۔

مَا أَبْعَدُ مَا قَاتَ وَمَا أَقْرَبُ مَا يَأْتِي

(جو نکل گیا وہ دُور گیا اور جو آنے والا ہے وہ بہت ہی قریب ہے)۔

أَبْعَدُ مِنَ الشَّجَمِ

شیا ستارے سے زیادہ دُور۔

أَبْعَدُ مِنْ بَيْضِ الْأَنْوَقِ

عقاب کے انڈوں میں سے بھی زیادہ دور یعنی نا حاصل ہونے والی

اس کے لئے مثل ہے جو تم کو برے انجام والے کام پر ابھارے۔

لَا يَنْفِي شَفِيَّ عَلَيَّ حَالِهِ
کسی چیز کی ایک حالت نہیں ہوتی۔

بَقِيَ نَعْلَيْكَ وَانْهَذَا قَدَمَيْكَ

(اپنے جوتے کو باقی رکھو اور پاؤں کام میں لاؤ) اپنے نفس پر تکلیف برداشت کرو اور مال کو بچاؤ تاکہ معاملات قابو میں رہیں۔

أَبْقَى مِنْ وَحْيِي فِي حَجْرٍ

(پتھر پر لکھی ہوئی حکمت سے بھی زیادہ باقی رہنے والا) یمن کے عرب حکمت کی باتیں پتھروں پر لکھتے ہیں تاکہ پائیدار رہیں لوگوں میں بولا جاتا ہے العلم فی الصغر كالنقش فی الحجر: ”بچپن کا علم پتھر پر لکیر کی مانند ہے۔“

أَبْقَى مِنَ الْعَصْرَيْنِ

(صبح و شام سے بھی زیادہ باقی رہنے والا) عصرین صبح و شام کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ صبح و شام میں کوئی تغیر نہیں ہوتا۔ ہمیشہ ایک ہی طرز پر آتے ہیں۔

أَبْقَى مِنَ النَّسْرَيْنِ

نسر طائر اور نسر واقع دو ستاروں سے زیادہ باقی رہنے والا۔

أَبْقَى مِنَ الذَّهْرِ

زمانہ سے زیادہ دیر باقی رہنے والا۔

أَبْقَى مِنَ الْحَجْرِ

پتھر سے زیادہ باقی رہنے والا۔

بَاكِرٌ تَسْعَدُ

صبح اٹھا کر تاکہ نیک بخت ہو۔ (حدیث کا مفہوم ہے کہ صبح کے وقت میں اللہ عزوجل نے برکت پنہاں کر دی ہے۔)

أَتَكْرُمُ مِنَ الْغُرَابِ

کوڑے سے بھی سویرے اٹھنے والا کو سب پرندوں سے پہلے اٹھتا ہے۔

مَا تَكَلَّمُ إِخْدَى يَذِيهِ الْأُخْرَى

اس کا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو بھی تر نہیں کرتا۔ انتہائی کنجوس کو کہا جاتا ہے۔

بَلَّغَ مِنْهُ الْمُخْتَفِ

وہ انتہائی سخت تکلیف میں مبتلا ہے۔

مراد اس سے موت کو پہنچ چکا ہے۔

بَلَّغَ الْجِرَامُ الطَّبِينِ

چیز۔

أَبْعَدُ مِنْ نَبَاطِ الْفَرْيَا

عیوق ستارے کے ساتھ لگی ہوئی چیز سے زیادہ دور۔

أَبْعَدُ مِنْ مَنَاطِ الْعَيْوُقِ

(عیوق کے لنگن سے بھی زیادہ دور) عیوق ثریا کے ساتھ طلوع ہونے والا ایک ستارہ ہے۔

أَلْبَعْدُ جَفَاءً

(دوری تم ہے) یعنی دور رہنے سے محبت کم ہوتی ہے۔

رُبَّ بَعِيدٍ أَنْفَعُ مِنْ قَرِيبٍ

(بہت سے دور والے پاس والوں سے زیادہ نافع ہوتے ہیں)۔

إِنَّ الْبَعَاثَ بَارِضَنَا يَسْتَسِيرُ

ہمارے علاقے میں بغاث (سبزی مائل سفید رنگ پرندہ) گلدھ بن جاتا ہے یعنی ہماری حمایت کے ساتھ ذلیل عزت والا ہو جاتا ہے۔

إِنَّ تَبَعٌ عَلَيْكَ فَوْزُكَ لَا يَنْبَغُ عَلَيْكَ الْفُضْرُ

اگر تیری قوم تجھ پر ظلم کرتی ہے تو چاند تجھ پر ظلم نہ کرے گا۔

ایک بات سمجھانے سے پہلے دوسری پیش کرتا۔

مَنْ ابْتِغَاءَ الْخَيْرِ ابْتِغَاءَ الشَّرِّ

برائی سے بچنا بھی بھلائی تلاش کرنا ہے۔

عَلَى النَّاسِ تَذْوُرُ الذَّوَابِرُ

(ظالم ہی کے سر پر مہیبیتیں گھومتی ہیں) باغی ظالم کو کہتے ہیں۔

كَمْ مَنِيْفِي الصَّيْدِ فِي عَرِيْسَةِ الْأَسَدِ

(شیر کی کچھار میں شکار تلاش کرنے والے کی طرح) اس شخص کے بارے میں بولا جاتا ہے جو غیر محل میں اپنی ضرورت طلب کرے یا

جہاں وہ مغلوب ہو جائے یا اس چیز کے لئے جو مجال چیز کا طالب ہو۔ ”جیل کے گھونسلے میں ماس تلاش کرتا“ ہاتھی سے گنا مانگنا۔

بِقَبْقَةِ فِي زَفْرَقَةِ

(ہنسی میں شور و شر) بقبققة: شور اور بہت بولنے کو کہتے ہیں اور زفراقه: ہنسی کو کہتے ہیں اور بے مقصد باتیں کرنے والے کے لئے بولا جاتا ہے۔ سخی بگھارنا یا بے پرکی اڑانا۔

بَقْلٌ شَهْرٌ وَشَوْكٌ ذَهْرٌ

ایک ماہ کا ساگ اور کاٹنا ہمیشہ کا۔

یعنی کم خیر اور زیادہ شر والا آدمی۔

مَا اسْتَبْقَاكَ مِنْ عَرَضِكَ بِلَانِدٍ

جس نے تجھے شیر کے سامنے ڈال دیا اس نے تجھ کو زندہ نہ چھوڑا۔

تنگ پستان تک پہنچ گیا۔

میں مشہور و معروف ہوں۔

مراد معاملہ انتہا کو پہنچ چکا۔

أَنَا ابْنُ جَلَالٍ وَطَلَّاعُ أَشْيَاءِ. مَتَى أَضَعُ الْعِمَامَةَ تَعْرِفُونِي

میں جلال کا بیٹا ہوں گھانٹوں پر چڑھ جانے والا۔ جب عمامہ اتارتوں گا

تو تم مجھے پہچان لو گے۔

سیلاب ٹیلوں تک پہنچ گیا۔ مراد: لوگ حد سے گزر چکے۔

بَلَغَ السَّيْلُ الْعِظَمَ

رُبَّ ابْنِ عَمٍّ لَيْسَ بِابْنِ عَمٍّ

کئی بچا زاد بھائی بچا زاد نہیں ہوتے۔ یعنی جو نفع نہ دے وہ کہاں کا

بھائی۔

(تھجری ہدی تک پہنچ گئی) کسی معاملے کے انتہا تک پہنچنے کے وقت

بولتے ہیں۔

بَلَغَ الدَّمَاءُ الشَّنَّ

بِنْتُ صَفَا تَقُولُ عَنْ سَمَاعٍ

(بنت صفا ہر آواز کا جواب دیتی ہے) بنت صفا اور بنت جبل سے

مراد صدائے بازگشت ہے۔ یہ مثال ایسے شخص کے لئے کہی جاتی ہے

جو کسی بھی کام کی طرف مدعو کیا جائے اور فوراً ہی قبول کر لے۔

(خون چو پاپیوں کے ٹٹوں تک پہنچ گیا۔ ٹن 'ٹنٹہ کی جمع ہے وہ بال جو

چو پاپیہ کے نیچے ٹٹوں میں ہوتے ہیں۔ یہ مثال بھی شر کے انتہائی حد

تک پہنچنے کے وقت بولا جاتا ہے۔

لَوْ بَلَغَ الرِّزْقُ فَاةَ لَوْ لَأَهَ قَفَاهُ

يُنْبِئِي قُضْرًا وَيَهْدِيهِمْ مِضْرًا

(محل تعمیر کر رہا ہے اور شہر پر باد کر رہا ہے) اس کو کہا جاتا ہے جس کی

خیر کم اور شر زیادہ ہو۔

(اگر رزق اس کے منہ تک پہنچ جائے تب بھی وہ پشت پھیر لے گا۔

ہر حالت میں خیر سے محروم رہنے والے کے لئے کہا جاتا ہے۔

مَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَ عَضُّ النَّمْلِ

أَبْهَى مِنَ الْقَمَرَيْنِ

(چاند سورج سے بھی زیادہ پُر رونق) "چندے آفتاب چندے

ماہتاب۔"

امید ہے کہ وہ بیہوشی کے کانٹے کے برابر بھی نہ پہنچے گا۔

اس کے لئے مثل ہے جس کے دھمکی کا اثر نہ ہو۔

أَبْلَغُ مِنْ قَيْسٍ

بَالَ حِمَارًا فَاسْتَبَالَ أَخْمِرَةَ

ایک گدھے نے پیشاب کر کے باقی گدھوں کو پیشاب کروادیا۔

اس قوم کے لئے کہا جاتا ہے جو برے لوگوں کی تقلید کرتے ہیں۔

قس بن ساعدہ سے بھی زیادہ بلیغ ہے۔ قس دنیا عرب میں سب سے

اول آقا بغداد اور البیئنة علی المدعی والیمین علی من انکر

بولنے والا ہے۔

أَبْلَهُ مِنَ الْحَبَارِيِّ

ان کے درمیان لومزی نے پیشاب کر دیا۔

اس قوم کے لئے مثل جن میں فساد و اختلاف ہو جائے۔

حباری سے بھی زیادہ بے سمجھ۔ یہ پرندہ اپنے انڈے بھول کر

دوسرے پرندوں کے انڈوں پر چاہیٹتا ہے۔

إِنَّ الْبَلَاءَ مُؤَكَّلٌ بِالْمَنْطِقِ

لَوْ كَانَ فِي الْبُؤْمَةِ خَيْرٌ مَا تَرَ كَهَا الصِّيَادُ

الوہیں کوئی نفع ہوتا تو اس کو شکاری نہ چھوڑتا۔

خاموشی ہر بلا سے بچاتی ہے۔ کہتے ہیں: ایک چپ سوکھ

أَبْلَايَا عَلَى الْحَوَايَا

مہیبیتیں حوایا پر بھی پڑتی ہیں۔ حوایا حویہ کی جمع ہے۔ اس عمدہ کو

کہتے ہیں جس میں گھاس بھر کر اونٹ کے کوہان پر رکھا جاتا ہے۔

مثال کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر کا لکھا ہوا پورا ہونا ضروری ہے۔

بَنَانٌ كَفَّ لَيْسَ فِيهَا سَاعِدٌ

كَانَتْ بِنِصَّةِ الدِّيَكِ

(وہ چیز مرغ کا انڈا تھی) اس چیز کے لئے بولا جاتا ہے جو صرف

ایک مرتبہ پائی جائے پھر نایاب ہو جائے کیونکہ بعض عرب کے گمان

میں مرغ بھی ایک مرتبہ انڈا دیتا ہے۔

ایسے ہاتھ کی انگلیاں ہیں جن کا بازو نہیں۔ ایسے شخص کے لئے کہا

جاتا ہے جس میں ہمت تو ہو مگر عمل کی طاقت نہ ہو۔

أَنَا ابْنُ جَلَالٍ

آج کا انڈا اکل آئندہ کی مرغی سے زیادہ قیمتی ہے۔

بَيْضَةُ الْبَلَدِ: شہر کا بڑا آدمی

ذُوْنُهُ بَيْضُ الْأَنْوَقِ

اس کے آگے عقاب کا انڈہ ہے۔ نایاب چیز کے لئے یہ مثل ہے۔

مَا كَلَّ بَيْضَاءَ شَخْمَةٍ وَلَا كَلَّ سَوْدَاءَ تَمْرَةٍ

ہر سفید چیز چربی اور ہر سیاہ چیز کھجور نہیں ہوتی۔ ہر چمکدار چیز سونا نہیں ہوتی۔

مَنْ بَاعَ لِبِعْرَضِهِ انْفِقَ

جو شخص اپنی آبرو بیچے گا آبرو دے بیٹھے گا۔ جو شخص گالیاں سننے کا

سامان کرے گا تو گالیاں اس کو تیار ملیں گی۔ انفق کے معنی ہیں بکنا

ہوا پایا۔ سہولت سے سودا ہو گیا۔

بِعْثُ جَارِي وَلَمْ أَبِيعْ دَارِي

میں نے پڑوسی بیچا ہے مکان نہیں بیچا۔ یعنی میں نے بدخلق پڑوسی سے

بیچنے کے لئے مکان فروخت کیا ہے۔

لَا تَبِعْ نَقْدًا بِدَيْنٍ

نقد کو ادھار کے بدلے میں نہ فروخت کر۔

قَدْ بَيْنَ الصُّبْحِ لَذَى عَيْنَيْنِ

آنکھوں والوں کے صبح روشن ہو گئی۔

أَبَيْنَ مِنْ فَلَقِي الصُّبْحِ أَوْ فَرَقِي الصُّبْحِ

صبح کی روشنی سے زیادہ روشن۔

إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لِبِسْحَرًا

بعض بیان جادو اثر والے ہوتے ہیں۔

سایہ سے بھی زیادہ رشتی پیچھا کرنے والا۔

لَوْ اتَّجَرْتُ بِأَلَا كُفَّانَ مَأْمَاتٍ أَحَدٌ

اگر تو کفن کی تجارت کرتا تو کوئی نہ مرتا۔

لَا تَبْجَارَةَ كَمَا لَعَمَلِي الصَّالِحِ

نیک کام جیسی تجارت نہیں ہو سکتی۔

تَرَكْتُ ظَنِّي ظِلَّةً

(ہرن نے اپنا سایہ چھوڑ دیا) اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو عیش

و آرام کی جگہ سے سختی و تنگی میں چلا جائے۔

تَرَكْتُهُ عَلَى انْفُسِي مِنَ الرَّاحَةِ

میں نے اس کو تنگی کی طرح صاف حالت میں چھوڑا۔ یعنی اچھی

حالت میں نہیں چھوڑا ہے۔

تَرَكْتُهُ عَلَى مِثْلِ مِشْغَرٍ مِنَ الْأَسَدِ

میں نے اس کو گویا شیر کے ہونٹ کے پاس چھوڑا دیا ہے۔

تَرَكْتُهُمْ فِي حَيْضِ بَيْضٍ أَوْ حَيْضِ بَيْضٍ

میں نے ان کو بھاگنے والا افراد میں پایا۔

کسی خطرناک کام میں پھنسے افراد کے لئے یہ مثل ہے۔

مَاتَرَكَ الْأَوَّلَ لِلْآخِرِ شَيْئًا

جس نے خواہشات کو چھوڑا اس نے آزاد زندگی گزار لی۔

مَنْ تَرَكَ الشَّهَوَاتِ غَاشٍ حُرًّا

اگر رات میں چھوڑا جائے تو سو جائے۔

یہ اس شخص کے لئے مثل جو مصیبت پر مجبور کیا جائے یا ظلم پر ابھارا

جائے وہ ظلم کرنے لگے۔

لَوْ تَرَكَ الْقَطَا لَيْلًا لَنَامَ

(اگر قطا رات میں دیکھنے والی چڑیا) کورات میں چھوڑتا تو آرام

سے سو جاتا) اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو بلا ارادہ کسی مصیبت

پر مجبور کیا جائے یا جو ظلم کرنے پر ابھارا جائے اور ظلم کرنے لگے۔

لَا يَتْرُكُ السَّاقِ إِلَّا مُمَشَّكَ سَاقًا

وہ ایک تہ کو بغیر دوسرے تہ کے پکڑے نہیں چھوڑتا۔ یہ گرگٹ کے

لئے کہا جاتا ہے۔ مراد محتاط آدمی۔

لَا يَتْرُكُ الظَّنِّي ظِلَّةً

تو شر کو چھوڑ دے شرتجھے چھوڑ دے گا۔

اتْرَكَ الشَّرَّ يَتْرُكْ

تم شر کو چھوڑ دو وہ تجھے چھوڑ دے گی۔

تَرَكَ الْجَوَابَ عَلَى الْجَاهِلِ جَوَابَ

س

أَتَاتِيَقُ وَأَنْتَ مَتِيْقٌ فَكَيْفَ نَتِيْقُ

(میں غضبناک ہوں اور تجھ میں سہارا نہیں پھر ہم کیسے متفق ہوں؟)

تسقى: غصہ سے بھرا ہوا اور تسقى: گھبرانے والا۔ دو مختلف العادات

لوگوں کے لئے بولا جاتا ہے۔

اتَّبِعِ الْفَرَسَ لِجَامِهَا وَالنَّاقَةَ زِمَامِهَا

(گھوڑے کے ساتھ لگام اور ناقہ کے ساتھ لگام بھی دو) تاکہ بخشش

مکمل ہو۔

اتَّبِعِ الذَّلُوْ بِالرِّشَاءِ

ڈول کے ساتھ رشتی بھی دو۔ رشاء: پانی کھینچنے کی رشتی۔

اتَّبِعْ مِنَ الظَّالِمِ الظَّالِمَ

جامل کو جواب نہ دینا اس کو جواب ہے۔

تَرَكْ مَا لَا يَصْلُحُ اَصْلَحْ

جو درست نہیں ہو سکتا اس کو اس کے حال پر چھوڑنا بہت اچھا ہے۔

اِذَا تَمَّ الْعَقْلُ نَقَصَ الْكَلَامُ

جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو کلام کم ہو جاتا ہے۔

تَمَامُ الرَّبِيعِ الصَّيْفِ

(فصل ربیع کا ختم ہونا ہی گرمی ہے۔ اسی طرح عرب کا قول ہے

الاعمال بنحو اتمیہا: اعمال کا اعتبار خاتمہ پر ہے۔

اَتَمُّ مِنْ قَمَرِ التَّمِّ

پورے چاند (چودھویں کے چاند) سے بھی زیادہ پورا۔ تم کے معنی

یہاں تمام کے ہیں یعنی بدرہ الصمام۔

الْتَمْرَةُ وَالْجَمْرَةُ

(کھجور اور انگارا) یعنی نفع اور نقصان۔

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

گناہ سے توبہ کرنے والا بے گناہ جیسا ہے۔

تَاجُ الْمُرُوَّةِ التَّوَّاضِعُ

عاجزی شرافت کا تاج ہے۔

اَتَيْتُ مِنْ قَوْمِ مُوسَى

قوم موسیٰ سے زیادہ حیران۔

س

ثَاطِطَةٌ مُذَّتْ بِمَاءٍ

(سڑی کچڑ کے ساتھ پانی بھی ملے گا۔ ثاططة: اس بدبودار کچڑ کو کہتے

ہیں جس کے ساتھ کوئی اور سڑی ہوئی چیز بھی شامل ہو۔ کریلا اور نیم

چڑھا۔

اَثْبَثْ فِي الدَّارِ مِنَ الْجَوَارِ

دیوار سے بھی زیادہ گھر میں جمنے والا۔

اَثْبَثْ مِنَ الْوَسْمِ

گودنے کے نشانوں سے زیادہ پائیدار۔

مَالُهُ تَابِعِيَّةٌ وَلَا زَائِغِيَّةٌ

اس کے پاس نہ بھیڑ ہے اور نہ اونٹنی۔

اَثْقَلُ مِنْ رَضْوَى

رضوی مدینہ کے پہاڑ سے بھاری۔

اَثْقَلُ مِنْ تَوْدٍ

بڑے پہاڑ سے زیادہ بھاری۔

تَكَلَّتْكَ اُمُّكَ اَيَّ جَرْدٍ تَرَقَّعَ

تیری ماں تجھے روئے تو کون سے کپڑے کو بیوند لگا رہا ہے۔ جرد:

پرانے کپڑے کو کہتے ہیں۔ اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو غلط اور

غیر نافع کام کرے۔

اَلْفُكْلَى تَحِبُّ اَلْفُكْلَى

(گم شدہ بچے کی ماں گم شدہ بچے کی ماں کو ہی پسند کرتی ہے) "کنہ

ہم جنس باہم جنس پرواز"۔

لَا يَفْضِرُ الشُّوْكَ الْعِنَبَ

کانٹا انور کا پھل نہیں دیتا۔

نُصْرَةُ الْجُنِّ لَا رِجْحَ وَلَا خُسْرَ

بزدلی کا نتیجہ نہ نفع نہ نقصان۔

لِكُلِّ نُوْبٍ لَا يَسُ

ہر کپڑے کو پہننے والا ہوتا ہے۔

ثَارُ حَابِلِهِمْ عَلَيَّ نَابِلِهِمْ

ان کے جال والے نے ان کو تیر والے پر غصہ کیا۔

اَثُورٌ يَنْجِسِي اَنْفَهُ بِرَوْقِهِ

تیل بھی اپنی ناک کی حفاظت اپنے سینگوں سے کرتا ہے۔

ج

اَجْبِنُ مِنْ نِعَامَةٍ

شتر مرغ سے بھی زیادہ بزدل۔

اَجْبِنُ مِنْ صَافِرٍ

صافر سے زیادہ بزدل۔ صافر ایک پرندہ ہے جو اپنی ٹانگوں سے

درخت کی شاخ کو پکڑ کر الٹا لٹک جاتا ہے اور تمام رات سیٹی کی آواز

نکالتا رہتا ہے تاکہ وہ سو نہ جائے اور شکار نہ کر لیا جائے۔

اِنَّ الْجَبَانَ حَسَفَ مِنْ فَوْقِهِ

بزدل کی موت اوپر سے نازل ہوتی ہے۔ نامرد کے لئے بولا جاتا

ہے۔

بِجَهْبَةِ الصَّيْرِ يُفْدَى حَافِرُ الْفَرَسِ

گدھے کی پیشانی گھوڑے کے کھر کے ندیہ میں دی جاتی ہے۔

اَنْحَسِحْشَ لَمَّا فَاتَكَ الْاَعْيَازُ

جب گدھے نے زلیں تو ان کا بچہ حاصل کرو۔

قَدْ جَدَّ اَشْيَاغُكُمْ فَجِدُّوْا

تہمارے ساتھیوں نے کوشش کی ہے تم بھی کوشش کرو۔

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

جو کوشش کرتا ہے وہ پالیتا ہے۔

جَدُّ لَامِرٌ يَجِدُ لَكَ

جس شخص کے لئے تو کوشش کرے گا وہ تیرے لئے کوشش کرے گا۔

جَدُّكَ يَزْعُمُ نَعْمًا

تیری نعمت تیرے چوپایوں کو چراتی ہے۔ مالدار مال اڑانے والے کے لئے بولا جاتا ہے۔

جَدُّكَ لَا كَذُّكَ

تیری کوشش فائدہ مند ہے لیکن اصرار طلب فائدہ مند نہیں۔

كُلُّ جَدَّةٍ سَنَانِيهَا عِدَّةٌ

برنی چیز۔ عنقریب اس کو مردہ ایام بوسیدہ کر دیں گے۔

نِعْمَ الْجُدُودُ وَلَكِنْ بِنَسْمٍ مَا خَلَفُوا

آباؤ اجداد اچھے تھے مگر ان کی بعد والی نسل بری ثابت ہوئی۔

لَا جَدِيدَ لِمَنْ لَا خَلْقَ لَهُ

جس کے پاس پرانا نہ ہو اس کے پاس نیا بھی نہیں رہتا۔ اس لئے پرانے کی حفاظت کرو کہ نیا بھی محفوظ رہے۔

جَدِيدَةٌ فِي لُغِيَّةٍ

(ایک بڑی سنجیدگی ہے کھیل میں) جدیدہ جد کی تصغیر ہے وہ بات

جو سنجیدگی سے کہی جائے۔ مراد یہ ہے کہ یہ بڑی سنجیدہ بات ہے جو

کھیل ہی کھیل میں کہی گئی ہے۔

مَنْ أَجْدَبَ انْتَجَعَ

(جو قحط زدہ ہوتا ہے وہ گھاس کی تلاش میں نکلتا ہے) محاورہ ہے

انتجع القوم الكلا: (قوم گھاس کی جستجو میں مختلف جگہ گئی) یعنی

ضرورت پوری کرنے کے لئے اچھی طرح کوشش کرو۔

وَبَعْضُ الْخَذْبِ أَمْرًا لِلْهَزِيلِ

بعض قحط سالی لاغر کے بڑی موافق ہوتی ہے۔ یعنی بعض لوگوں کو

مالداری کے بجائے غریبی صحیح رہتی ہے۔

جَدْحُ جَوْنٍ مِنْ سَوِيْقٍ غَيْرِهِ

جوین نے اپنے غیر کاستون گھولا ہے۔

أَجْدَى مِنَ الْغَيْثِ فِي أَوَانِهِ

بروقت بارش سے زیادہ نفع مند۔

جَدْبُ الزَّمَامِ يَرِيضُ الصَّعَابَ

باگ کھینچ کر رکھنا بے سدھ گھوڑوں کو سدھادیتا ہے۔ ایسے شخص کے

لئے کہتے ہیں جو ابتداء میں حکم نہ مانے مگر آخر میں مطیع ہو جائے۔

صعاب: سرکش گھوڑے کو کہتے ہیں۔

جَدْلٌ جِجَاكٌ

(کھجلی دور کرنے والا کڑی کا لٹھا) جدل: درخت کی جڑ کو کہتے ہیں

یہ اونٹوں کے ہاڑھ میں نصب کر دی جاتی ہے اور خارشی اونٹ اس

سے کھلا کر سکون حاصل کرتے ہیں۔ حکساک: خارش کی طرح

ایک بیماری سے اس شخص کے لئے کہتے ہیں جس کی رائے اور عقل سے لوگ اپنے کام درست کرتے ہیں۔

أَنَا بَدَّلْتُهَا السُّحْلَكَ وَغَدَّيْقَهَا الْمُرَجَّبُ

(میں اس کے لئے خارش کے وقت کھلانے والا تھ ہوں اور چپوترہ

سے مضبوط کیا ہوا کھجور کا درخت ہوں) جدیل جدل کی تصغیر ہے بمعنی

درخت کی جڑ۔ محک وہ چیز جس سے خارشی اونٹ کھلا نہیں۔ عذبق

عذبق کی تصغیر ہے بمعنی کھجور کا درخت مر جب۔ وہ چیز جس کے

چاروں طرف پتھر کا چپوترہ بنا کر مضبوط کیا گیا ہو کھجور کے اچھے

درخت کی حفاظت کے لئے اس کے چاروں طرف پتھر کا چپوترہ بنا

کر سہارا دیتے ہیں۔ تصغیر تعظیم کے لئے ہے جس شخص کی عقل و رائے سے لوگ مستفید ہوتے ہیں۔

كُلُّ يَنْعَرُ النَّارَ إِلَى فُرْصِهِ

ہر شخص اپنی نکیا کی طرف آگ کھینچتا ہے۔

أَجْرًا مِنْ أَسَامَةِ

اسامہ (شیر) سے زیادہ بہادر ہے۔

أَجْرًا مِنْ لَيْثٍ بِخِفَانٍ

خفان (جھاڑی برائے شیر) کے شیروں سے زیادہ بہادر۔

أَجْرًا مِنْ ذُهَابٍ

(کھسی سے زیادہ جری) جو بادشاہ کی ناک اور شیر کی پلک دونوں پر

جائے تھمتی ہے۔

أَجْرَدٌ مِنْ ضَلَعَةٍ

گنبے کے سر کا بغیر بالوں والے حصے سے بھی زیادہ نکلا۔

أَجْرَدٌ صَخْرَةٌ

چٹان سے زیادہ صاف۔ جس پر کوئی روئیدگی نہیں ہوتی۔ اس پر کوئی

چیز نہیں جمتی۔

كَمْخَرَادٍ لَا يَبْقَى وَلَا يَنْدُرُ

نڈی کی طرح جو نہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے۔

جَزَعٌ وَ أَوْشَالٌ

سیراب ہونا اور تھوڑا پانی۔

کفایت شعاری پر رغبت کے لئے مثل ہے۔

الجرع اروي والوشيف انقع

زیادہ پینا سیراب تو کر دیتا ہے لیکن چوستا اور پینا زیادہ فرحت بخش ہے۔

لاجرؤم بعد الندامة

ندامت کے بعد کوئی جرم باقی نہیں رہتا۔

اذا جرى المذنبى حسرت عنده الحفر

جب کامل گھوڑا چلتا ہے تو گدھے سے عاجز رہ جاتے ہیں۔ مذکی وہ گھوڑا جس کی قوت اور نشوونما مکمل ہو چکی ہو۔ یہ ایسے شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو اپنی خوبیوں کی وجہ سے اپنے ساتھیوں سے سبقت لے جائے۔ "گھوڑے اور گدھے میں کیا مقابلہ"۔

ينجوى بليق ويندم

بلیق دوڑتا ہے پھر بھی اس کی مذمت ہوتی ہے۔ بلیق ایک گھوڑے کا نام ہے جو دوڑ میں جیتا کرتا تھا پھر بھی اس کی برائی ہوتی تھی یہ مثل اس موقع پر بولی جاتی ہے جب محسن کی مذمت کی جائے۔

تجرى الرياح بما لا تشتهي السفن

ہوا میں اس چیز کے ساتھ چلتی ہیں جس کو کشتی والے پسند نہیں کرتے۔

أخبر الأُمور على أذلالها

کاموں کو آسانی والے طریقوں پر چلا۔

جزى المذنبات غلاء

اتجھے گھڑوں کی دوڑ میں تک ہوتی ہے۔

الجزع عند المصيبة فصيته أخرى

(مصیبت کے وقت گھبراہٹ ایک دوسری مصیبت ہے)۔

جزاه جزاء سخار

(اس کو ستمار جیسی جزا دی) ستمار شاہ نعمان ابن امرأ القیس کے مشہور اور پراسرار مثل خواقن کاروی معمار تھا جس کو محل کی تعمیر کے بعد نعمان نے اسی محل سے گرا کر ہلاک کر دیا تاکہ کسی اور کے لئے ایسا محل نہ بنا سکے ایسے محسن کے لئے کہا جاتا ہے جس کو بھلائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے۔

جزيفه كليل الضاع بالمضاع

(میں نے اس کو پیانا کا بدلہ پیانا سے دیا) یعنی بھلائی کا بدلہ بھلائی سے اور برائی کا بدلہ برائی سے۔

هذا جزاء مُجبر أم عامر

یہ بچو کو پناہ دینے والے کا بدلہ ہے۔

اعرابی نے بچو کو پناہ دی بجو نے اس کو قتل کر دیا۔

الجزاء من جنس الفصل

عمل کا بدلہ عمل جیسا ہوتا ہے۔ جیسا کرنا ویسا بھرتا۔

تَجشأ لقضان من غير شنيع

لقمان نے پیٹ بھرے بغیر ڈکاری۔

یعنی فریب ہو کر امیری ظاہر کرنا۔

جفجعة ولا آرى لها طحينا

(چکی کا شور ہے مگر آنا نظر نہیں آتا) "شور اشوری وہ بے نمکی"۔

من جعل نفسه عظما اكلته البكلات

(جو اپنے آپ کو ہڈی بنائے گا اس کو کتے کھائیں گے)۔

لا تجعلها بيضة الديك

(اس کو مرغی کا انڈا نہ بناؤ) مشہور ہے کہ مرغی اپنی عمر میں ایک بار انڈا دیتا ہے۔ اسی مرغی پر ایک شاعر نے کہا ہے۔

زوتنا مرة في الدهر واحدة فبني ولا تجعلها بيضة الديك

اے محبوبہ تم نے ہم سے ایک دفع ملاقات کی دو بارہ ملو اور اس کو مرغی کا انڈا نہ بناؤ۔

جلد الخنزير لا يندبغ

خنزیر کے چمڑے کو رنگ نہیں جاسکتا۔

یعنی اس شخص پر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔

أخفى من الدهر

زمانہ سے زیادہ بے وفا۔

نحت جلد الضان قلب الأذوب

(بھیر کی کھال کے نیچے بھیرے کا دل) یعنی ظاہر میں بھیر کی طرح بھولا اور دل بھیرے کی طرح بے رحم۔

جليس المزايف

(آدمی کا ہم نشین اسی جیسا ہوتا ہے)۔

جلتي محمًا نظره

(دوست کو اس کی نظر نے ہی ظاہر کر دیا ہے) دوست کی نگاہ بتا دیتی ہے۔

لا يجمع سيفان في غميد

ایک میاں میں دو تلواریں جمع نہیں ہو سکتی۔

ما يجمع بين الأزوي والنعام

ماں جمع بین الأزوی والنعام

پھاڑی بکر اور شتر مرغ جمع نہیں ہو سکتے۔

یعنی دو مخالف الطباع اکٹھے نہیں ہوتے۔

أَجْمَعُ مِنْ نَمْلَةٍ

چیوٹی سے زیادہ جمع کرنے والا۔

مَنْ أَجْمَلَ قَبْلًا سَمِعَ جَمِيلًا

(جو اپنی گفتگو اچھی رکھے گا وہ اچھی ہی سنے گا)۔

الْجَمَلُ مِنْ جَوْفِهِ يَخْتَرُ

(اونٹ اپنے ہی منہ سے جگالی کرتا ہے) اس شخص کے لئے کہتے ہیں

جو اپنے کب سے روزی کما تا ہے اور اس کے لئے بھی جو ایسے چیز

سے نفع اٹھائے جو اس کو نقصان پہنچانے والی ہے۔

الْجُنُونَ فَنُونَ

جنون کی بہت سی قسمیں ہیں۔

لِكُلِّ جَنْبٍ مَضْجَعٌ

ہر پہلو کے لئے سونے کی جگہ ہے۔

لِكُلِّ جَنْبٍ مَضْرَعٌ

ہر پہلو کے لئے گرنے کی جگہ موت ہے۔

جَنَّتْ عَلَى أَهْلِهَا بَرِاقِشَ

براق کتیا نے اپنے مالکوں پر ہی ظلم کیا۔

إِنَّكَ لَا تَجْنِي مِنَ الشُّوْكَ الْعَنْبِ

(تو کانٹوں سے انگور کا پھل نہیں چنے گا) "کانٹے بوکر پھول چین

نہیں سکتے"۔

أَجْنَاءُ هَا أَبْنَاؤُهَا

(دست درازی کرنے والے اس کے معمار ہی ہیں) اجناء: جانی کی

جمع ہے۔ جرم کرنے والا اور ابناء: بانی کی جمع ہے بمعنی معمار۔ جمع

کی یہ مثال نادر ہے، مثل ایک یعنی بادشاہ کا مقولہ ہے جس نے ایک

جنگ پر جاتے ہوئے اپنی لڑکی کو قائم مقام بنایا تھا۔ لڑکی نے

درباری امراء کے مشورہ سے ایک عمارت گرانے کا حکم دیتے ہوئے

اس نے یہ جملہ کہا جو مثل بن گیا۔ مطلب یہ ہے کہ عمارت گرانے کا

جرم وہی لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے اس کی تعمیر کی تھی۔ بے سوچے

کبھے کام کو مٹانے کی ضرورت پڑے تو یہ مثل کہی جاتی ہے۔

هَلْ يَجْهَلُ فَلَانًا إِلا مَنْ يَجْهَلُ الْقَمَرُ

(فلاں چیز سے وہی بے خبر ہو سکتا ہے جو چاند سے بے خبر ہو) یعنی

فلاں چیز چاند کی طرح روشن و مشہور ہے "چاند نکلا سب نے

دیکھا"۔

الْجَهْلُ مُطَبَّعٌ مَنْ رَكِبَهَا ذَلٌّ وَمَنْ صَحِبَهَا ضَلٌّ

جہالت ایک سواری ہے جو اس پر سوار ہوگا ذلیل ہوگا اور جو اس کے

ساتھ رہے گا گمراہ ہوگا۔

الْجَهْلُ شَرُّ الْأَصْحَابِ

جہالت بدترین ساتھی ہے۔

أَجْهَلُ مِنْ عَقْرَبِ

بچھو سے بھی زیادہ جاہل۔ پتھر پر ڈنگ مار کر اپنے جسم کو ہی نقصان

پہنچاتا ہے۔

أَجْهَلُ مِنْ فِرَاشِيَّةٍ

پروانہ سے بھی زیادہ جاہل (جو خود کو ہی ہلاک کر لیتا ہے۔

عِنْدَ جَهَنَّمَ النَّخِيرُ الْيَقِينُ

یقینی خبر تو جہنم کے پاس ہے۔

أَجْوَدُ مِنْ حَاتِمِ

حاتم سے بھی زیادہ سخی۔

إِنَّ الْجَوَادَ قَدْ يَغْتَرُ

اصیل گھوڑا کبھی غلطی کر لیتا ہے۔

یعنی تجربہ کار آدمی بھی کبھی لغزش کر لیتا ہے۔

أَنَّ الْجَوَادَ عَيْنُهُ فِرَازَةٌ

اصیل کی آنکھ دانت دیکھنے سے مستغنی کر دیتی ہے۔

لِكُلِّ جَوَادٍ كَنُوءَةٌ

ہر اصل گھوڑے کو کبھی کبھی ٹھوکر لگتی ہے۔

جَاوِزٌ مَلِكًا أَوْ يَخْرَا

(بادشاہ کے پڑوس میں رہا یا سمندر کے) دولت اہل ثروت ہی سے

حاصل کرنی چاہئے۔

كَمْ جَبْرُ أُمِّ عَامِرٍ

(جو کو پناہ دینے والے کی طرح) شکار یوں نے ایک مرتبہ جو کو گھیر لیا

تھا۔ ایک اعرابی نے اس کو شکار دے دی۔ شکاری تو واپس چلے گئے

لیکن جو نے سوتے میں پناہ دینے والے اعرابی کا پیٹ پھاڑ دیا جس

نے اس کو دودھ پلا کر سیراب کیا تھا۔ اس اعرابی کے بچا کے بیٹے کو

جب معلوم ہوا تو اس نے کہا۔

مَنْ يَصْنَعُ الْمَعْرُوفَ مَعَ غَيْرِ أَهْلِهِ

یلاقی الذی لا یقی مُجِيزُ أُمِّ عَامِرٍ

(جو کوئی نا اہل کے ساتھ احسان کرتا ہے اس کو وہی جزا ملتی ہے جو ام

عامر کے محافظ کو ملی جیسے 'سانپ کو دودھ پلانا'۔

الْمُسْتَجِيرِ بِعَمْرٍ وَعِنْدَ كُرْبَتِهِ. كَالْمُسْتَجِيرِ مِنَ الرَّمْضَاءِ بِالنَّارِ
مصیبت کے وقت عمر سے پناہ لینے والا جیسے نرم زمین سے بچ کر
آگ کے پاس جانے والا۔

الْحِجَارُ ثُمَّ الدَّارُ
پہلے پڑوس کو دیکھے پھر گھر کو۔

الرَّفِيقُ قَبْلَ الطَّرِيقِ
اپنے قریب ترین پڑوسی کا خیال کرو تم پر بعید ترین غالب نہ آئے گا۔

جَوَلَهُ بِاطِلٍ سَاعَةً وَجَوَلَهُ الْحَقُّ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ
باطل کا زمانہ ایک گھڑی اور حق کا زمانہ قیامت تک ہے۔

جَاءَ بِمُطْفِئَةِ الرُّضْفِ
وہ گرم پتھر کو مات کرنے والا پایا۔

جَاءَ بِالطِّيمِّ وَالرِّيمِ
وہ سمندر اور زمین کی تہہ کو لایا۔

جَاءَ الصَّيَّانُ فَالْوَيْ بِالْأَسَايِدِ
(مشاہدہ آیا اور اسناد کو لے گیا) مشاہدہ کے بعد سند بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔

جَاءَ بِمِصْبَاحِ وَضَعَتْ
(وہ بولنے والا اور خاموش مال لایا) یعنی چوپائے اور سونا چاندی وغیرہ۔

جَاءَ بِقَرْنَيْ حِمَارٍ
(وہ گدھے کے دو سینگ لایا) یعنی جھوٹ اور ناممکن بات۔

جَاءَ بِذَاتِ الرَّعْبِ وَالصَّبِيلِ
وہ گرنے والا اور آواز دینے والا لایا۔

جَاءَ نَائِرًا أُذُنِيهِ
اپنے کانوں کو پھیلا کر آیا۔

جَاءَ نَافِثًا عَفْرِيته
اپنی کلتی کو پھیلا کر آیا۔

جَاءَ وَعَلَى بَكْرَةَ الْبِهِمِ
(وہ تمام کے تمام آ گئے) یعنی پیچھے کوئی باقی نہ رہا۔ بکرة: لوگوں کی جماعت کو کہتے ہیں۔ یہ شیل یوں بھی کہی جاتی ہے۔ جاؤا علی بکرتہم وبکرة ابہم: تمام ہی آ گئے۔

اِذَا جَاءَ الْجَيْنَ حَارَاتِ الْعُيُونِ
موت آتی ہے تو آدمی اندھا ہو جاتا ہے۔

اِذَا جَاءَ الْقَدْرُ غَشِيَ الْبَصْرَ
جب قضا آتی ہے تو آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں۔

جَاءَ وَأَقْضَا قَضِيضًا
وہ سارے کے سارے آ گئے۔

جَاءَ الْقَوْمُ قَطْطِهِمْ وَقَضِيضِهِمْ
قوم اور ساری کی ساری آ گئی۔

جِيْفَةٌ لَا تُعْكَرُ بَحْرًا
ایک مردار سمندر کو گدلا نہیں کرتا۔

جَارَكَ الْأَذْنَى لَا يَغْلُظُكَ الْأَقْضَى
ادنی پڑوسی کی حفاظت کرو تا کہ اعلیٰ تم پر غالب نہ ہو سکے۔

جَاوَزَ الْحِزَامَ الطَّنِينِ
(تنگ پستان سے بھی تجاوز ہو گیا) پانی کا سر سے گزرتا۔

تَجْوَعُ الْحَوْرَةُ وَلَا تَأْكُلُ بِفَدْيِهَا
(شریف عورت بھوکی رہتی ہے مگر اپنے پستانوں کی کھائی نہیں کھاتی) یعنی دودھ پلانے والی دایہ نہیں بنتی "ذلیل پیشہ سے بچانے کے لئے کہا جاتا ہے)۔

أَجْعُ كَلْبِكَ يَتَّبِعُكَ
اپنے کتے کا بھوکا رکھ تیرے پیچھے رہے گا۔

أَجْوَعُ مِنْ ذُو الْوَالَةِ (الذنب)
بھیڑیے سے بھیڑیے زیادہ بھوک والا۔

أَجْوَعُ مِنْ كَلْبِيَّةِ حَوْمِلٍ
حول کی کتیا سے زیادہ بھوکا۔

أَجْوَعُ مِنْ قُرَايِدِ
(چیڑی سے زیادہ بھوکا) اذو الر بھیڑیے کا مخصوص نام ہے۔ کہتے ہیں کہ بھیڑیے کے منہ میں کوئی چیز ہونی ضروری ہے گویا وہ ہمیشہ بھوکا رہتا ہے۔ بھیڑیے کا پیٹ ہڈی کو پگھلا دیتا ہے۔ دشمن کو بددعا میں کہتے ہیں رساہ اللہ بداء الذنب: خدا اس کو بھیڑیے کی بیماری (بھوک) میں مبتلا کرے۔

مَنْ جَالَ نَالَ
(جو دوڑو سوپ کرتا ہے حاصل کر لیتا ہے) "حرکت میں برکت ہے"۔

أَجُولُ مِنْ قَطْرَبِ
(قطرب سے زیادہ چکر لگانے والا) قطرب ایک جانور ہے جو تمام رات نہیں سوتا بلکہ چکر لگاتا رہتا ہے)۔

ع

پتھر میں کوئی مطلوب چیز نہیں۔ پتھر میں دھرا ہی کیا ہے۔ قلت خیر کے لئے بولا جاتا ہے۔

الْمُحَاجِزَةُ قَبْلَ الْمُنَاجِزَةِ

آڑ میں آنا لڑائی سے پہلے ہونا چاہئے۔ محاجزہ: دو چیزوں کے درمیان آ جانا۔ آڑ میں آ جانا۔ مناجزہ: لڑائی کی سرعت یعنی شرم میں پڑنے سے پہلے ہی باز رہو۔ اگر مقابلے کی طاقت نہ ہو تو بھاگنے میں تجلّت کرو۔

إِنَّ الْخَيْدِيذَ بِالْخَيْدِيذِ يُفْلَخُ

لوہے کو لوہے سے ہی چیرا جاتا ہے۔ فلاح: چیرنا۔ فلاح: کسان "لوہے کو لوہا کاٹتا ہے"۔

وَيُخَذُّ مِنَ نَعَضِ الْأُمُورِ أُمُورٌ

باتوں سے باتیں پیدا ہوتی ہیں۔

خَيْدٌ عَنِ مَعْنٍ وَلَا حَرْجٌ

معنی سے روایت کر کوئی حرج نہیں۔

وسعت ظرفی والے کے لئے بولا جاتا ہے۔

خَيْدٌ عَنِ النَّخْرِ وَلَا حَرْجٌ

سندر کی بات کر کوئی حرج نہیں۔

خَيْدِيثٌ خِرَافَةٌ

خرافہ کی بات۔ خرافہ ایک شخص کا نام ہے جس کے متعلق خیال تھا کہ ایک مدت تک جن اس کے اوپر مسلط رہے۔ اس حالت میں جو کچھ وہ دیکھتا اپنی قوم سے بیان کرتا اور لوگ اس کی تکذیب کرتے اسی مناسبت سے ہر ناقابل فہم بات کو حدیث خرافہ کہنے لگے۔

الْخَيْدِيثُ ذُو شُجُو

بات مختلف شاخیں رکھتی ہیں۔ شجون جمع ہے شجن کی وہ راستہ جو کسی وادی سے یا وادی کے بالائی حصہ سے گزرتا ہو یا جمع شجن بمعنی شاخ یا ہر وہ چیز یا شاخ جو کسی دوسری شاخ میں لپٹی ہوئی ہو۔ ذوشجون شاخ در شاخ ہونے والی ہے ایک بات سے بھی شاخوں کی طرح بہت سی باتیں پھوٹتی ہیں اسی معنی میں عوام کا مقولہ ہے السحدیث یجر بعضہ بعضاً: گفتگو کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھینچتا ہے۔

الْحَادِي وَ لَيْسَ لَهُ بَصِيرَةٌ

اس ہانکنے والے کی طرح جس کے پاس اونٹ ہی نہ ہوں۔ السحدر: پیچھے سے ہانکنا۔ تو آگے سے کھینچنا۔ یہ مثل ایسے شخص کے لئے بولتے ہیں جو غیر مملوکہ چیز پر شنی بگھارے یا غیر مستحق کی طرف منسوب ہو۔ "حلوائی کی دکان ناناجی کی فاتحہ"۔

مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ ذِكْرَهُ

جو کسی چیز سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔

لَا أَحِبُّ ذَمِيًّا فِي طَشْتِ ذَهَبٍ

مجھے اپنا خون سونے کے طشت میں بھی پسند نہیں۔ موت کے بعد تمام شان و شوکت بے کار ہے۔

حُبُّكَ الشَّيْءِ يُعْمِي وَ نَيْبُهُ

کسی چیز سے تباری محبت اندھا اور بہر اہنا دیتی ہے۔ یہی مفہوم اس شعر میں کہا گیا۔

وَ عَيْنُ الرِّضِّ عَنْ كُلِّ غَيْبٍ مُخَلِّدَةٌ

ولکن عَيْنُ السَّخَطِ تُبْهِدِي الْمَيَّاتِيَا

پسند کی نگاہ ہر مہیب سے بند ہوتی لیکن ناراضگی کی آنکھ صیہوں کو ظاہر کرتی ہے۔

الْحُبُّ أَغْنَى

محبت اندھی ہوتی ہے۔

لَيْسَ فِي الْحُبِّ مَشُورَةٌ

محبت میں مشورہ کی ضرورت نہیں۔

أَحَبُّ شَيْءٍ إِلَى الْإِنْسَانِ مَا مَنَعًا

سب سے زیادہ محبوب چیز انسان کو وہ معلوم ہوتی ہے جس سے اس کو منع کیا جائے۔ یہی اس شعر کا مطلب ہے۔

زَيْتُ النَّفْسِ تَكْرَهُ مَالِ دِيهَا. وَ تَطْلُبُ كُلُّ مُنْتَمِعٍ عَلَيْهَا

میں نے نفس کو دیکھا کہ اپنے پاس موجود چیز کو پسند نہیں کرتا اور ہر ممنوع چیز کو طلب کرتا ہے۔

مِنْ الْحَبَّةِ تَنْشَأُ الشَّجَرَةُ

دانہ ہی سے تو درخت پیدا ہوتا ہے۔ یعنی چھوٹے کام سے ہی بڑے نتیجے پیدا ہوتے ہیں۔

كُلُّ حَبَّةٍ لَهَا لِيَالٌ

ہر دانہ کو پیمانہ میں بھرنے والا ہے۔

خَيْلُكَ عَلَى غَارِيكَ

تیری رسی تیرے کندھے پر ہے۔ یعنی تو اپنے کام میں آزاد ہے۔

رُبَّ حَبِيْبٍ مَكِيْبٌ

بہت سے جلد باز لیت ہونے والے ہیں۔

مَا فِي النَّخْرِ مَبْعِيٌّ

الْحَذَرُ أَشَدُّ مِنَ الْوَقِيعَةِ

ڈروا قدم میں مبتلا ہونے سے زیادہ سخت ہے۔

إِنَّ الْحَذَرَ لَا يَذْفَعُ الْمَقْدُورَ

احتیاط تقدیر کو نہیں روک سکتی۔

أَخَذَرُ مِنَ قِرْلَى

قرلی پرندہ سے زیادہ ڈرنے والا۔

یہ پرندہ پانی اور فضا سے ڈرتے ڈرتے شکار پکڑتا ہے۔

أَخَذَرُ مِنَ غُرَابٍ

کوئے سے زیادہ محتاط۔ کوئے سے زیادہ سیانا۔

أَخَذَرُ مِنْ ذَنْبٍ

بھیرے سے زیادہ چالاک۔ عربوں کا خیال ہے کہ بھیر یا اس قدر

چالاک ہے کہ سوتے ہوئے بھی باری باری ایک آنکھ کھلی رکھتا ہے۔

كُلُّ الْجِذَاءِ يَخْتَوِي الْخَافِي الْوَقِعِ

دکھتے ہوئے اور ننگے پاؤں والا ہر قسم کا جوتا پہن لیتا ہے۔ وقوع

یوقع وقعا: ننگے پاؤں ہونا اور پتھر یا سخت زمین پر چلنے کی وجہ سے

پاؤں کے گوشت میں درد ہو جاتا۔ وقوع: وہ برہنہ پاؤں کے پاؤں

سخت زمین پر چلنے کی وجہ سے دکھنے لگے ہوں۔ یہ مثل ایسے مصیبت

زدہ کے لئے بولی جاتی ہے جو معمولی چیز پر قناعت کرے "بھوکے کو

دوروی غنیمت ہیں"۔

الْخُزْزُ وَإِنْ مَسَّهُ الضَّرُّ

عزت دار عزت دار نبی ہوتا ہے اگر چہ اس کو تنگی ہو۔

جِرَّةٌ تَحْتَ فِرَّةٍ

ٹھنڈک کے نیچے بیاس۔

أَخْرُ مِنْ نَارِ الْفَضِّ

عصی لکڑی کی آگ سے زیادہ گرم۔

أَخْرُ مِنَ النَّارِ

آگ سے زیادہ گرم۔

أَخْرُ مِنْ مَرِّخَلٍ

ہنڈیا سے زیادہ گرم۔

أَخْرُ مِنْ دَمْعِ الْمَقْلَاتِ

بچے کی سوگوار ماں کے آنسوؤں سے زیادہ گرم۔ مقلات: وہ

عورت ہے جس کے بچے زندہ نہ رہتے ہوں۔ کہتے ہیں کہ نم کے

آنسو گرم ہوتے ہیں اور خوشی کے آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں۔

الْحَرْبُ خَذَعَةٌ

لڑائی دھوکہ ہے۔

الْحَرْبُ مِجَالٌ

لڑائی میں ردعمل ہے۔

الْحَرْبُ غَشُومٌ

لڑائی ظالم ہے۔

أَخْرَزَ امْرَأً أَجَلَهُ

آدمی کو اس کی موت نے ذخیرہ کر لیا۔ موت نے ڈھیر کر دیا۔ کہتے

ہیں کہ یہ عرب کی سب سے گچی ضرب المثل ہے۔

أَخْرَسَ مِنْ كَلْبٍ

کتے سے زیادہ گلمبانا۔

الْحِرْضُ قَابِذُ الْجِرْمَانِ

لاہج محرومی کا پیش خیمہ ہے۔

الْحَرِينُضُ مَخْرُومٌ

لاہجی محروم رہتا ہے۔

أَخْرَضَ مِنْ نَمْلَةٍ

چیونٹی سے زیادہ لاہجی۔

لَيْسَ الْحَرِينُضُ بَزَائِدٍ فِي رِزْقِهِ

لاہجی اپنا رزق زیادہ نہیں کر سکتا۔

إِنَّهُ لِيَحْرُقَ عَلَى الْأَدَمِ

وہ مجھ پر دانت پیتا ہے۔ ازم: ڈاڑھوں کو کہتے ہیں مطلب یہ کہ اس

کا نینٹا وغضب مجھ پر شدید ہے۔

حَرَكَ لَهَا خَوَازِهَا تَجْرُ

اومٹی کے بچے کو حرکت دے گا تو وہ پکارے گی۔ حوار۔ اونٹنی کا دودھ

پیتا بچہ۔ فصیل: وہ بچہ جس کا دودھ چھوٹ گیا ہو حن: غم یا خوشی میں

آواز نکالنا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو غم یا دلاؤ تب وہ حرکت میں

آئے گا۔

الْحَرَمَةُ بَرَكَةٌ

حرکت میں برکت ہے۔

الْحَرْمُ حِفْظُ مَا وُلِّيتَ وَتَرْكُ مَا كَفَيْتَ

احتیاط قبضہ والی چیز کی حفاظت کرنا اور غیر ضروری چیز کو چھوڑنا ہے۔

الْحَرْمُ ظَنٌّ بِالنَّاسِ

احتیاط لوگوں کے ساتھ بدگمانی کرنا ہے۔

أَخْرَمَ مِنَ الْعُرْبَاءِ

گرگت سے زیادہ محتاط۔

لَا يَخْزُنُكَ دَمٌ هَزَأَهُ أَهْلُهُ

اس خون پر تجھے رنج نہ ہونا چاہئے جو اس کے اہل ہی نے بہایا ہے۔

يَحْسِبُ الْمَطْرُوزُ أَنْ كُتْلًا مَطْرًا

بارش میں بیگکا ہوا سمجھتا ہے کہ ہر شخص بارش میں بیگکا ہے۔

لَا حَسَبَ كَالْتَوَاضِعِ

تواضع جیسی کوئی شرافت نہیں۔

حَسَبُكَ مِنْ غَيْبِي شَيْعٌ وَزَيْجِي

بیراب ہونا اور پیٹ بھرنا کافی مالداری ہے۔

بِعْنِي قَاعَتُكَ وَرَوَّاحَاتُكَ كَرُو

خسبک میں شہر سماعہ

تجھے شہر کو من لینا ہی ہے۔

الْحَسَنُ مَطِيئَةُ النَّعْبِ

حسد تھکاوت کی سواری ہے۔

مَنْ حَسَنَ ظَنَّهُ حَسَنَ عَيْشُهُ

جس کا گمان نیک ہو گیا اس کی زندگی اچھی ہوگی۔

حَسَنٌ فِي كُلِّ عَيْنٍ مَا تَوَدُّ

ہر آنکھ کی نظر میں وہی چیز اچھی ہے جس کو وہ محبوب رکھتی ہے۔

حُسْنُ الظَّنِّ وَرُزْطَةُ

حسن ظن بھنور ہے۔ ورطہ بھنور اور ایسا معاملہ جس سے نجات مشکل

ہے۔ ہلا کی مطلب یہ کہ لوگوں کے ساتھ حسن ظن ہی کی وجہ سے آدمی

دھوکے کھاتا ہے۔ یہ مثال الحزم سوء الظن بالناس کے ہم معنی

ہے۔

لِكُلِّ حَسَنِ عَائِبٍ

ہر نیک میں عیب والی چیز بھی ہوتی ہے۔

الْحَسَنَةُ بَيْنَ السَّيِّئِينَ

نیکی دو ایریوں کے درمیان ہوتی ہے۔ یعنی درمیانی راہ نیکی ہے۔

أَحْسَنُ مِنَ الدُّنْيَا الْمُقْبِلَةَ

آنے والی دنیا سے زیادہ اچھا۔

أَحْسَنُ مِنَ النَّارِ

آگ سے زیادہ خوبصورت۔

أَحْسَنُ مِنَ الطَّوَسِ

مور سے زیادہ خوبصورت۔

أَحْسَنُ مِنَ النَّوَامِكَةِ

برمی وزراء کے زمانہ سے زیادہ خوبصورت۔

أَحْسَنُ مِنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ

سورج اور چاند سے زیادہ خوبصورت۔

الْإِحْسَانُ يَقْطَعُ اللِّسَانَ

احسان زبان کو بند کرتا ہے۔

أَحْسَبُكَ وَتَرَوْنِي

میں تجھے گھاس کھلاتا ہوں اور تو مجھ پر گوہر گراتا ہے۔

أَحْشَفَا وَسَوْءٌ كَثِيلَةٌ

کھجور بھی ردی اور پیانہ بھی کم۔ کھیلہ کھیل: اسے اسم نوع ہے۔

حشف: ردی کھجور۔ یعنی نکما اور تھوڑا دو کروہ خصلتوں کا جامع یا دو

طرف سے ظلم کرنے والا۔

الْحِصَاةُ مِنَ الْحَبْلِ

کنکری بھی پہاڑ کا جزء ہے۔

كُلُّ يَحْتَبِطُ فِي حَبْلِهِ

ہر کوئی اپنی کنکری میں رسیاں باندھتا ہے۔

كَمَحَاطِبِ لَيْلٍ

رات میں کنکریاں جمع کرنے والے کی طرح۔

حَطَّ فِي السَّحَابِ وَعَقَلَ فِي التُّرَابِ

نصیب آسمان پر اور عقل مٹی میں۔

حَطَّ حَزْبِي بَيْنَ شَذَقِي ضَيْغِمٍ

بڑا حصہ شیر کی دو جڑوں کے درمیان۔

بڑی منفعت مگر شدید خطرات کے درمیان۔

إِلَّا حَظِيَّةً فَلَا آيَةَ

صاحب نصیب نہیں تو کوتاہی کرنے والی بھی نہ بن۔ حظیة

خطوة سے مشتق ہے بمعنی مرتبہ۔ عزت اور الیة الو: بمعنی تقصیر سے

ماخوذ ہے اس مثل کی اصل مقدر یہ ہے۔

إِنْ لَمْ تَكُونُوا حَظِيَّةً وَلَا تَكُونِي آيَةً (مَقْصُرَةٌ)

اگر تو معزز و صاحب رتبہ نہ ہو تو کوتاہی کرنے والی بھی نہ ہو۔ اس

عورت کے لئے کہا گیا ہے جو اپنے خاوند کو محبوب نہ ہو۔ اگر خاوند کی

محبت میسر نہیں تو اپنی طرف سے خدمت و محبت میں کوتاہی نہ کر۔

مطلب یہ کہ لوگوں کی مدارات کر کے ان سے اپنا مطلب نکالو۔

مَنْ حَفَرَ حَفْرَةً وَقَعَ فِيهَا

جو کوئی اپنے بھائی کے لئے گڑھا کھودے گا۔ اسی کی موت اس

گڑھے میں ہوگی۔

مَنْ حَفَرَ حَفِيرًا أَلَا يَحِيدُ كَانَ حَنْفَهُ فِيهِ

جس نے اپنے بھائی کے لئے گڑھا کھودا اس کی موت اس میں واقع ہوگی۔

مَا حَاكَ جِلْدَكَ مِنْهُنَّ طُفُورِكَ
تیری کھال کو تیرے اپنے ناخن کی طرح کوئی چیز نہ کھجلائے گی۔ یعنی تم اپنی ضرورت کو آپ اچھی طرح پوری کر سکتے ہو۔

تَحْفَظُ أَخَاكَ إِلَّا مِنْ نَفْسِهِ

اپنے بھائی کی حفاظت کر سکتا ہے مگر اس کی جان سے۔

یعنی لوگوں کے شر سے بچا سکتا ہے اس کو خودکشی سے نہیں بچا سکتا۔

حَفِظْتُ شَيْئًا وَغَابَتْ عَنْكَ أَشْيَاءُ

ایک چیز کو تو نے یاد کیا اور دیگر چیزیں تجھ سے غائب ہو گئیں۔

حَافِظُ عَلِيِّ الصِّدِّيقِ وَلَوْ فِي الْحَرِيقِ

دوست کی حفاظت کر خواہ آگ میں کود کر ہی ہو۔

أَحْفَظُ مَا فِي الْوِعَاءِ لِشِدَّةِ الْوِكَاءِ

جو کچھ برتن میں ہے اس کی حفاظت برتن کا منہ باندھ کر کرو۔ دکان

مشکیزہ کا سر بند۔

أَحْفَظُ مِنَ الْأَرْضِ

زمین سے زیادہ حفاظت کرنے والا۔

أَلْحَفِيفُ تُحَلِّلُ الْأَحْقَادَ

غیرت دشمنی کو ختم کر دیتی ہے۔

یعنی قومی حمایت آدمی کو اپنے عزیز سے ہمدردی دلاتی ہے۔

عند الشدايد تذهب الأحقاد

ختیوں کے وقت مصائب ختم ہو جاتے ہیں۔

حَقٌّ يَضُرُّ خَيْرٌ مِنْ بَاطِلٍ يَسُرُّ

مسرت رساں حق مسرت رساں باطل سے بہتر ہے۔

أَلْحَقُّ خَيْرٌ مَا يُقَالُ

کہنے کی چیزوں میں بہترین چیز حق بات ہے۔

أَلْحَقُّ أَبْلَجُ وَالْبَاطِلُ أَلْبَلَجُ

حق روشن اور باطل گڑبڑ ہوتا ہے۔ ابلج: روشن۔ لجلج: ملتبس

غیر واضح۔

هَذَا حَقٌّ مُنْزِلٌ بِتَرْكِ

یہ مقام چھوٹے کے مقامات میں سے اچھا ہے۔

أَحْقَدُ مِنْ جَمَلٍ

اونٹ سے زیادہ کینہ والا۔

مَنْ حَقَّرَ حَزْمَ

جس نے حقیر سمجھا وہ محروم رہا۔

أَحْقَرُ مِنَ التُّرَابِ

خاک سے زیادہ حقیر۔

لَسْتُ مِنْ أَخْلَابِهَا

تو اس کے ساتھیوں میں سے نہیں ہے۔ احساس: جاننے پیمانے والے ساتھی۔ احساس الخیل: سائیس گھوڑوں کے خدمت گار۔

حَلَقْتُ بِهِ عَقْفَاءَ مَغْرِبِ

عقواء مغرب نے اس کا احاطہ کر لیا ہے۔ ناپائیدار اور نامانوس چیز

کے لئے کہا جاتا ہے۔ مغرب انجانی چیز۔ مذکر نمونٹ مستعمل ہے۔ بجائے سیلاب سے تباہ شدہ نالیوں میں اگتا ہے۔

أَخْفَى مِنْ عَجَل

شرنبت سے زیادہ احمق۔ شرنبت کی حماقتیں مشہور ہیں۔ ایک دفعہ اس نے بدلی کے سائے کو علامت مقرر کر کے صحرا میں اپنا مال دفن کیا تھا۔ سایہ ہٹ گیا اور مال کی جگہ گم ہو گئی۔

أَخْفَى مِنْ نَعَامَةٍ

شتر مرغ سے زیادہ بے وقوف۔

أَخْفَى مِنْ هَيْبَتَةٍ

ہینقبہ سے بیوقوف۔ یہ شخص موٹی بکریوں کو خوب کھلاتا اور کزور کو گھاس سے دور رکھتا۔

أَخْفَى مِنْ مَاضِحِ الْمَاءِ

پانی چبانے والے سے زیادہ احمق۔

أَخْفَى مِنَ الْقَابِضِ عَلَى الْمَاءِ

پانی کو پکڑنے والے سے زیادہ احمق۔

أَخْفَى مِنْ نَاطِحِ الْمَاءِ

پانی کو سینگ مارنے والے سے زیادہ احمق۔

أَخْفَى مِنَ الْأَرْضِ بِخَدَّتِهِ

اپنے رخساروں سے زمین کو کھینچ مارنے والے سے زیادہ احمق۔

أَخْفَى مِنَ نَاطِحِ الصُّخْرِ

چٹان کو سینگ مارنے والے سے زیادہ احمق۔

يَخْمَلُ التَّمْرَ إِلَى الْبَصْرَةِ

بصرہ کی طرف کھجور لے جاتا ہے۔

لَا يَخْمَلُ اللَّهُ نَفْسًا غَيْرَ طَائِفَتِهَا

اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔

لَمْ يَخْمَلْ خَاتِمِي مِثْلَ خَنْصَرِي

میری کن انگلی کی طرح کسی نے میری انگوٹھی کو برداشت نہ کیا۔ اپنا

کام آپ ہی سادھے سنوارے۔

إِنَّمَا يَخْمَلُ الْكَلَّ عَلَى أَهْلِ الْفَضْلِ

بوجھ اہل فضل پر ہی ڈالا جاتا ہے۔ کل بوجھ یا ایسا شخص جو بار ہو۔

يَا خَامِلٌ أَذْكَرُ خَلًا

اے لادنے والے کھولنے کے وقت کو بھی یاد رکھنا۔

أَخْمَلُ مِنَ الْأَرْضِ

زمین سے زیادہ بوجھ برداشت کرنے والے۔

حَيْمِي فَبِحَاشِ مَوْجِلِهِ

اور عفتا بہ مغرب صفت اور اضافت دونوں طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔

هَمُّ كَالْحَلْفَةِ الْمَفْرُغَةِ لَا يُلْدِرِي أَيْنَ طَرَفَاهَا

وہ ڈھلے ہوئے حلقے کی طرح ہیں معلوم نہیں کہ اس کے دونوں

سرے کہاں ہیں؟

جَلْمِي أَحْمُ وَأَذِنِي غَيْرُ ضَمَاءِ

میرا علم بہرا اور میرے کان بہرے ہیں۔

أَخْلَمُ مِنَ الْأَخْفِ

اخف سے زیادہ حکیم۔

الْحَكِيمُ مَطِيئَةُ الْجَهُولِ

بردار جاہل کی سواری ہے۔

لَا تَكُنْ خَلْوًا فَتُسْرَطْ وَلَا مُرًا فَتَقْصِي

نہ بیٹھا بن کر نگل لیا جائے اور نہ کزوا کہ اگل دیا جائے۔

استراط: نگل جانا۔ اعقاء: تلخی کی وجہ سے اگل دینا۔ یہی مفہوم اردو

میں ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

أَخْلَى مِنَ الْغَسَلِ

شہد سے زیادہ شیریں۔

أَخْلَى مِنَ نَيْلِ التَّرَامِ

حصول مراد سے زیادہ شیریں۔

أَخْلَى مِنْ حَيَاةٍ مُعَاوَذَةٍ

دوبارہ زندگی سے زیادہ بیٹھا۔

الْحَمْدُ مَغْنَمٌ وَالْمُذْمَةُ مَفْرَمٌ

تعریف حاصل ہونا نغیمت ہے اور مذمت ملنا تاوان ہے۔

كَانَ حَمَارًا فَاسْتَنْزَنَ

وہ گدھا تھا گدھی بن گیا۔

بِعَيْنِي طَاقُورٌ تَحْمَلُ كَزُورٌ هُوَ كَمَا

یعنی طاقتور تھا کزور ہو گیا۔

أَخْفَى مِنْ ذُعْبَةٍ

دغ سے زیادہ احمق۔ دغ ایک عورت تھی جس نے اپنے بچے متحرک

تاو کو پھوڑا کھجور اور دماغ کو پیپ کھجور نکال دیا جب اس سے

پوچھا گیا تو جواب دیا پچھ تکلیف کی وجہ سے روتا تھا اب آرام سے سو

گیا۔

أَخْفَى مِنْ رِجْلَةٍ

رجلہ سے زیادہ احمق۔ رجلہ ایک گھٹا ساگ ہے جو تیار کھیتوں کی

وہ گرم ہوا اور اس کی ہانڈی جوش مارنے لگی۔

مصیبت کی کوئی تدبیر نہ ہو تو کم از کم صبر تو کیا جاسکتا ہے۔

يَخْمِي جَوَابِيَهُ نَفِيْقُ الصَّفْعِ ع

مَا جَيْلَةَ الرَّامِي إِذَا انْقَطَعَ الْوُخْرُ

مینڈک کی ٹرٹرا اس کے تالابوں کی حفاظت کرتی ہے۔

جب تانت ہی ٹوٹ جائے تو تیر انداز کیا کرے۔

رُبَّ خَامٍ لَا نَفِيْهِ وَهُوَ جَادِعَةٌ

إِذَا خَانَ الْقَضَاءُ ضَاقَ الْقَضَاءُ

بہت سے اپنی ناک بچاتے ہیں مگر اصل وہ اس کو کاٹنے والے ہوتے ہیں۔

جب قضا (موت) آئے تو نضا تک ہو جاتی ہے۔

جَمَاكُ أَحْمَى لَكَ

لَا تُخِي الْبَيْضَ وَتَقْتُلِ الْفَرَخَ

اپنا گھیر ہی تیرا زیادہ محافظ ہے۔

چوڑھ کوئل کر کے انڈا کو باقی مت رکھ۔

أَحْمَى مِنْ أَنْفِ الْأَسَدِ

يَعْنِي بَرِيءٌ حَيْزٌ كَوْضَائِحٌ نَهَكَرَ

ٹڈی کو پناہ دینے والے سے زیادہ محافظ

خِثَاكُ مِنْ خِلَافِهِ

حَايَةُ مُنْعَضِبَةٍ

تجھے خالی منہ والے نے سلام کیا ہے۔

مہربان خضاب لگانے والی عورت۔

لَا حَسِي فَيْرُجَلِي وَلَا مَيْتٌ فَيُنْسِي

الْحَاجَةُ تَفْتَقُ الْجَيْلَةَ

نہ زندہ ہے جس سے امید کی جائے اور نہ مردہ جس کو بھلا دیا جائے

تاکارہ۔

ضرورت حیلہ کو پیدا کرتی ہے۔

أَخْيَانٌ مِنْ قَنَابَةٍ

نوجوان عورت سے زیادہ باحیا۔

حَالُ الْحَرِيضِ ذُوْنَ الْقَرِيضِ

أَخْيَانٌ مِنْ مُعَدَّرَةٍ

غم شہر کے آگے حائل ہو گیا۔ یعنی خوشی کے دن غمی آگئی۔

پردہ نشیں عورت سے زیادہ حیا دار۔

حَالُ الْأَجَلِ ذُوْنَ الْأَمَلِ

أَخْيَانٌ مِنْ هَدِيٍّ

امید کے درے موت حائل ہو گئی۔ یہ پہلی مثل کے قریب قریب ہی ہے۔

دلہن سے زیادہ باحیا۔

إِنْ خَالَتْ الْقَوَسُ فَسَهْمِي صَائِبٌ

أَخْيَانٌ مِنْ ضَبِّ

اگر میری کمان بیزھی ہے مگر میرا تیرا نشانہ پر لگتا ہے۔

گوہ سے زیادہ زندگی والا۔

رُبَّ حَالٍ أَفْصَحَ مِنْ لِسَانٍ

الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ

بہت مرتبہ حال زبان سے زیادہ فصیح ہوتا ہے۔

حیا ایمان کا حصہ ہے۔

أَخْوَلٌ مِنْ أَبِي قَلْمُونٍ

ابو قلمون (کپڑا) سے زیادہ بد لئے والا۔

أَخْوَلٌ مِنْ أَبِي بَرَأَشٍ

ابو برائش (پرندے) سے زیادہ رنگ بد لئے والا۔

الْحَاوِي لَا يَنْجُو مِنَ الْحَيَاتِ

سانپوں کے منتر والا سانپوں سے نجات نہیں پاتا۔

أَخْيَرُ مِنْ ضَبِّ

گوہ سے زیادہ تمبیر۔ جو اپنے بل سے نکل کر وہیسی کا راستہ بھول جاتی ہے۔

تُخْبِرُ عَنْ مَجْهُولِهِ مَرَاتِنَهُ

جَيْلَةَ لِهُ الصَّبْرُ

اس کا ظاہر منظر ان جانے کی خبر دے رہا ہے۔ ظاہر باطن کی شہادت

جس شخص کے لئے کوئی حیلہ نہ رہے اس کے لئے حیلہ صبر ہے۔

دیتا ہے۔

ح

أَمَّا خَيْثٌ وَأَمَّا بَرِيْثٌ

یا تیزی دوڑی یا بیٹھ ہی گئی۔ العجب: تیز دوڑنا یا خیر کی انتہا یا شر کی

انتہا۔

أَخْبِرُنْهُ بِمَعْجَرِيٍّ وَبِنَجْوِيٍّ

میں نے اس کو اپنے تمام برا زوں کی خبر دے دی۔ عجز: بیچ در بیچ

رکیں۔

تُخْبِرُ عَنْ مَجْهُولِهِ مَرَاتِنَهُ

اس کا ظاہر منظر ان جانے کی خبر دے رہا ہے۔ ظاہر باطن کی شہادت

دیتا ہے۔

يُخْبِرُكَ أَذْنَى الْأَرْضِ عَنْ أَفْصَاحِهَا

زمین کا ابتدائی حصہ اس کے انتہائی حصہ کی خبر دے رہا ہے۔

لَيْسَ الْغَبْرُ كَالْمُعَابِنَةِ

خبر آنکھوں کے دیکھے کی طرح نہیں۔

عَلَى الْغَيْبِ سَقَطَتْ

جاننے والے کے پاس پہنچے ہو۔

يَخِطُّ خَيْطَ عَشْوَاءَ

اندھی اونٹنی کی طرح روند رہا ہے۔ عشواء: کمزور نظر اونٹنی جو ہر چیز

کو روند ڈالتی ہے۔ اس شخص کے لئے کہتے ہیں جو بے سوچے سمجھے

کسی کام میں پڑ جائے یا کسی کام کی ذمہ داری لے اور اس کے

انجام کا انتظام نہ کرے۔

أَخْبَطُ مِنَ حَاطِبِ اللَّيْلِ

رات کو لکڑیاں جمع کرنے والے سے زیادہ گڑبڑ کرنے والا۔

ضروری اور غیر ضروری اشیاء کو جمع کرنے والا۔

أَخْتَلَّ مِنَ الذَّنْبِ

بھیڑے سے زیادہ دھوکے باز۔ ختل: دھوکہ دینا۔

مَنْ خَدِمَ الرِّجَالَ خَدِمَ

جس نے لوگوں کی خدمت کی اس کی خدمت کی گئی۔

الْأَخَادِلِ أَخُو الْقَاتِلِ

رسوا کرنے والا قاتل کا بھائی ہے۔

نُخْرِجُ الْمِقْدَحَةَ مَا فِي قَعْرِ الْبُرْمَةِ

چھپوہ نکالتا ہے جو ہنڈیا کے پینڈے میں ہوتا ہے۔

قَدْ يَخْرُجُ مِنَ الصَّدْفِ غَيْرَ الدَّرِّ

کبھی سپ سے موتی کے سوا کچھ اور بھی نکل آتا ہے۔

لَا تُخْرِجُ النَّفْسُ مِنَ الْأَمَلِ حَتَّى تَدْخُلَ فِي الْأَجْلِ

نفس امیدوں کے پھندے سے نہیں نکلتا جب تک موت کی حد میں

نہ داخل ہو جائے۔

دُونَهُ خَرَطَ الْقَتَادَ

اس سے آسان تو قناد کے کانتوں کو سوختا ہے۔ خراط: یعنی سخت

مشکل باتھ سے پتے سوختا۔ قناد ایک خاردار درخت ہے۔

النَّخْرُوفُ يَتَقَلَّبُ عَلَى الصُّوفِ

بھیڑ کا بچہ اون پر کروٹیں لیتا ہے۔

أَخْرَفَ مِنْ فَاشِكَةِ الْغَزَلِ

سوت توڑنے والی سے زیادہ احق۔

خَرَفَاءُ ذَاتِ نَيْفَةٍ

پھوہڑ چتر گھڑ بننے والی (خرفاء وہ عورت جو کام کو اچھی طرح کر نہیں سکتی ہے)۔ پھوہڑ چتر، گھڑ بننے والی۔

خَرَفَاءُ غِيَابَةٍ

پھوہڑ عیب نکلنے والی خود نہیں جانتی مگر دوسروں کے کام میں عیب نکالتی ہے۔

أَخْرَجَ مِنَ الْقَابِضِ عَلَى الْمَاءِ

مٹھی سے پانی پکڑنے والے سے زیادہ نقصان اٹھانے والا۔

مَنْ خَشِيَ الذَّنْبَ أَعَدَّ كَلْبًا

جو شخص بھیڑے سے ڈرے اس کو تیار کرنا چاہئے۔ جو بھیڑے کا

شکار کر سکے۔ دشمنوں کے لئے تیاری کرنے کی ترغیب۔

لَا تَخَاصِمُ مَنْ إِذَا قَالَ فَعَلْ

اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو کہے تو کر گزرے۔

إِيَّاكُمْ وَخَضِرَاءَ الدِّمَنِ

کوڑی پر آگی ہوئی بڑی سے بچو۔

الخطأ زاد العجول: (خطا جلد بازی کی راہ ہے)

زاد راہ کی طرح غلطیاں ساتھ لے کر چلنا۔

مع الخواطيء سهم صائب

خطا کرنے والے تیروں کے ساتھ نشانہ پر بیٹھے والا تیر بھی ہوتا

ہے۔ ایسا اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو بہت مرتبہ غلطی کرنے کے

بعد ایک مرتبہ ٹھیک کام کر جائے۔ خواطی: وہ تیر جو نشانہ سے خطا

کریں۔

مِنَ الْحَسَنَاءِ يُعْطَى مَهْرَهَا

جو کسی حسینہ کو نکلی کا پیغام بھیجے گا اس کا مہر بھی ادا کرے گا۔

أَخْطَبُ مِنَ سَخْبَانَ وَائِلِ

حبان ابن وائل سے زیادہ خطیب۔ حبان قبیلہ ہابلہ کا نہایت بلند

فصیح و بلیغ شاعر اور خطیب تھا۔

لِكُلِّ سُؤَالٍ جَوَابٌ

ہر سوال کا جواب ہے۔

ليس المخاطر ومحموداً ولو سلبنا

خطرہ میں کود پڑنے والا قابل تعریف نہیں ہوتا اگرچہ سلامت ہو۔

خَفَّتْ بِيَعَامَتُهُمْ

ان کا شتر مرخ اور جلد کوچ کر گیا۔

خَفِيفٌ طَعَامُكَ تَأَمَّنْ مِنْ مِيقَامِكَ

ہلکا پھلکا کھاؤ تاکہ بیماریوں سے محفوظ رہو۔

أخف حطماً من عصفور

چڑیا سے بھی زیادہ جلد طیش میں آجانے والا۔ عقل کی کمی اور طیش کے لئے چڑیا کی مثال دی جاتی ہے۔ چڑا ہوتا بھی غضبناک ہے۔

أخف من بواغية

نزل سے زیادہ ہلکا۔ بواغیہ: نرکل۔ نئے۔

أخف من ريشية

پر سے زیادہ ہلکا۔

أخف من النسيم

باد نسیم سے زیادہ ہلکا۔

أخف من الهباء

غبار سے زیادہ ہلکا۔

وهل يخفي على الناس القمر

کیا لوگوں پر چاند بھی مخفی رہتا ہے۔ ایسے معاملے یا خوبی کے لئے کہا جاتا ہے جو چھپ نہ سکے۔

ما عنده خيل ولا خمر

نہ اس کے پاس سرکہ ہے نہ شراب۔ یعنی خیر ہے نہ شر۔

ما أنت بخيل ولا خمر

تیرے پاس تو سرکہ ہے نہ شراب۔

الخلاء تدعوا إلى السلة

فقر چوری کی طرف بلاتا ہے۔

تصلصت قانية من قلوب

انڈہ چوزے سے نجات پا چکا ہے یعنی اپنی ذمہ داری سے آدمی نکل چکا ہے۔

أختلط المرعى بالجملي

چڑیا ہوا اور اونٹ مخلوط ہو گئے۔

أختلط الهابل بالقابل

جال والا تیر والے کے ساتھ مخلوط ہو گیا یعنی معاملہ بگڑ گیا۔

أختلط الخائر بالزباد

گاڑھا دودھ شراب دودھ کے ساتھ مل گیا۔ یہ مثلیں ایسے لوگوں کے لئے دی جاتی ہیں جن کا معاملہ گڑبڑ میں پڑ جائے۔

خالف نفسك تستريح

اپنے نفس کی مخالفت کرو تاکہ راحت پاؤ۔

خالف هواك ترشد

اگر تجھے اختیار دیا جاتا تو اختیار کر لیتی۔

اپنی خواہش کے خلاف کرو تاکہ ہدایت پاؤ۔

خالف تذکر

مخالف کرو تاکہ زیادہ ذکر کیا جائے۔

أخلف من غرقوب

غرقوب سے زیادہ وعدہ خلاف۔

أخلف من نار الحجاج

جگنو کی آگ سے زیادہ وعدہ خلاف جو نہ سلگتی ہے اور نہ روشنی دیتی ہے۔

خلق الله للمحرب رجلاً

اللہ تعالیٰ نے لڑائی کے لئے اور ہی مرد پیدا کئے ہیں۔

خلالك الجو قبيضي وأصفري

تیرے لئے میدان خالی ہو گیا۔ اب انڈے دے اور چھپا۔

لا يخلوا المرء من وذود يمدح وعذو يقذخ

کوئی شخص بھی ایسا نہیں جو کسی تعریف کرنے والے دوست اور برائی کرنے والے دشمن سے خالی ہو۔

خيل من قل خيرة لك في الناس غيره

اس شخص کو چھوڑ جس میں بھلائی کم ہو یا نہ ہو لوگوں میں تجھے اس کے علاوہ مل جائیں گے۔

خيل الحسب ليوم الحسب

حساب کو روز حساب کے لئے چھوڑ دو۔

خلاء وك أفتني لحيانك

تجہائی تیری حیا کی زیادہ محافظ ہے۔

من لا يخاف احداً لا تخافه احداً

جو کسی سے نہیں ڈرتا اس سے کوئی نہیں ڈرتا۔

من خان هان

جس نے خیانت کی ذلیل ہوا۔

بارئما خان النصيح المؤمن

کبھی امانت دار خیر خواہ بھی خیانت کر جاتا ہے۔

أحيب من قابض على الماء

پانی کو مٹھی میں پکڑنے والے سے زیادہ ناکام۔

أحيب من خنين

حنین سے زیادہ ناکام۔

لا تخترت

اگر تجھے اختیار دیا جاتا تو اختیار کر لیتی۔

خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا

معاملات میں میانہ روی بہترین چیز ہے۔

خَيْرُ الْأُمُورِ أَحْمَدُهَا مَغْنَمَةٌ

بہترین کام وہ ہے جس کی انجام میں تعریف کی جائے۔

خَيْرُ الْأَنْاءِ يَكُ تَكْفِيئِينَ

تو نے اپنے بہترین کوالٹ رہی ہے یعنی مستحق محروم اور غیر مستحق

فضیلاب ہو رہے ہیں۔

كُفَاءُ الْإِنَاءِ

برتن کو امدھا کرنا۔

خَيْرُ أَهْلِكَ مَنْ كَفَاكَ

تیرا بہترین رشتہ دار وہ ہے جو تیرے لئے کافی ہو جائے۔

خَيْرُ النَّبِيعِ نَاجِزٌ بِنَاجِزٍ

بہترین خرید و فروخت نقد ہے۔

خَيْرُ خَالِيكَ تَنْظِيجِنَا

اپنے بہترین دوہنے والے کو سینگ مارتی ہے۔ ایک بکری کو دو آدمی

دوہتے تھے۔ نرمی سے دوہنے والے کو وہ سینگ مارتی تھی اور

دوسرے کو وہ کچھ نہیں کہتی تھی۔ یہ مثل ایسے شخص کے لئے استعمال کی

جاتی ہے جو اپنے خوش معاملہ لوگوں سے برائی کرے۔

خَيْرُ الْجَلالِ حِفْظُ اللِّسَانِ

بہترین خصلت زبان کی حفاظت کرنا ہے۔

خَيْرُ سِلَاحِ النَّمْرِ مَا وَقَاهُ

آدمی کا بہترین ہتھیار وہ ہے جو اس کو بچائے۔ یعنی جو بھی وقت پر

کام کر جائے۔

خَيْرُ الْأَضْحَابِ مَنْ ذَلَّكَ عَلَى الْخَيْرِ

بہترین ساتھی وہ ہے جو تیری خیر کی طرف رہنمائی کرے۔

خَيْرُ عَفْوٍ مَا كَانَ عِنْدَ الْقُدْرَةِ

بہترین معافی وہ ہے جو قدرت حاصل کرنے کے وقت دی جائے۔

خَيْرُ الْعِلْمِ مَا حَضَرَكَ

بہتر علم وہ ہے جو ضرورت کے وقت کام آئے۔

خَيْرُ الْغِنَى الْقَنُوعُ

بہترین مال داری قناعت ہے۔

خَيْرُ الْكَلَامِ مَا قَلَّ وَذَلَّ

بہترین کلام وہ ہے جو مختصر اور مراد کو ظاہر کرنے والا ہو۔

خَيْرُ الْمَالِ مَا نَفَعَ

بہترین مال وہ ہے جو نفع پہنچائے۔

خَيْرٌ مِنَ الْخَيْرِ فَاعِلُهُ

اچھوں میں اچھا وہ ہے جو کام کرے۔

خَيْرُ النَّاسِ مَنْ فَرِحَ لِلنَّاسِ بِالْخَيْرِ

بہترین وہ ہے جو لوگوں کی بھلائی سے خوش ہو۔

خَيْرُ الْوَعْظِ مَا ذَع

بہترین وعظ وہ جو برائی سے ہٹائے۔

الْخَيْرُ أَنْبَى وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ بِهِ

بہترین علم وہ ہے جو وقت پر حاضر کر سکے۔

إِنَّ خَيْرَ الْفَقْهَ مَا حَضَرَتْ بِهِ

بہترین علم وہ ہے جو وقت پر حاضر کر سکے۔

لَا خَيْرَ فِي أَرْبِ الْفَاقِ فِي لَهَبٍ

اس مقصد میں کوئی خیر نہیں جو تجھے شعاعوں میں ڈال دے۔

لَا خَيْرَ فِي الشَّرَفِ وَلَا سَرَفٍ فِي الْخَيْرِ

اسراف میں کوئی بھلائی نہیں اور بھلائی میں اسراف نہیں۔

لَا خَيْرَ فِي وَدَيْكَوْنٍ بِشَافِعٍ

ایسی محبت میں کوئی بھلائی نہیں جو کسی سفارش کرنے والے کا ذریعہ

ہو۔

الْخَيْلُ تَجْرِي عَلَى مَسَاوِيهَا

گھوڑا اپنے عیبوں کے باوجود چلتا ہے۔ یعنی شریف آدمی تنگی کے

باوجود سخاوت کرتا ہے۔

الْحَيْلُ أَعْلَمُ بِفُرْسَانِهَا

گھوڑے اپنے سواروں کو خوب جانتے ہیں۔ مطلب یہ کہ معاملہ

شناس آدمی کو اختیار کرو۔

أَخِيْلٌ مِنْ غُرَابٍ

کو سے سے زیادہ اترانے والا۔ کو بڑے انداز سے چلتا ہے۔

أَخِيْلٌ مِنْ دِيكٍ

مرغ سے زیادہ تاز دکھانے والا۔

9

دَائِمًا لَا يَقْطَعُ بِالْإِمَارَاتِ

سمندر ککڑیوں کے بیڑہ سے طے نہیں۔

أَذْبَرُ عَرَبِيَّةٌ وَأَقْبَلُ لِعَرَبِيَّةٍ

اس کی اچھی عبادت نے پیٹھ پھیر لی اور بد خلقی سامنے آگئی۔

التدبير نصف الميضية

تدبیر آدمی روزی ہے۔

كذابفة وقد حليم الأذيمم

کمال رنگنے والے کی طرح جب کہ کمال فاسد ہو چکی ہو۔

حليم الجلد

کمال خراب ہو گئی اور اس میں کیڑے پڑ کر سوراخ ہو گئے۔ اس

فحص کے لئے بولا جاتا ہے جو کسی معاملے کی اصلاح کی اس وقت

کوشش کرے جب وہ فساد کی وجہ سے ناقابل اصلاح ہو چکا ہو۔

دخل فضولي ناز فقال خطب رطب

فضولی خواہ مخواہ دخل دینے والا۔ آگ میں گھس گیا اور کہنے لگا کہ

ایندھن گیلا ہے۔

يُدخل شعبان في رمضان

شعبان کو رمضان میں داخل کر رہا ہے۔ یعنی بے سرو پا باتیں کرتا

ہے۔

لا تدخل بين البصلة وقشرها

پیاز اور اس کے چھلکے کے درمیان مت گھسو۔

لا تدخل بين النضو لجانها

ڈنڈے اور اس کی چھال کے درمیان ہرگز داخل نہ ہو۔

لكل قرح حالب

ہر دودھ کا کوئی دوہنے والا بھی ہے۔

أذرها وإن أتت

اس کو دودھ لو خواہ وہ انکار کرے۔ یہ مقولہ اس اونٹنی کے لئے کہا جاتا

ہے جو میانہ باندھے بغیر دودھ نہ دوئے دے۔ یعنی ضرورت یا

بھلائی کو باصرار حاصل کرو۔

كثر المقابيد أولي من جلب النعيم

مفاسد کو دفع کرنا نعمتیں حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔

يذرج في سخل وكمو

ہر گھولے میں گھس جاتا ہے۔

الذراهم مراهم

روپے مراهم کا کام کرتے ہیں۔

الذراهم أرواح تسيل

روپے بہتی ہوئی روہیں ہیں۔

من لم يدار لمشط ينتف لجينة

جو شخص سخی سے نرمی نہ برتے گا وہ اپنی ہی داڑھی کے بال

اکھاڑے گا)

لا يدعي للخلى إلا أخوها

بڑے معاملے کے لئے اس کا ماہر ہی بلا یا جاتا ہے۔

أذع إلى طعابك من تدعوه إلى جفابك

اپنی نیزہ بازی کے لئے اسی کو بلاؤ جس کو اپنے پیالے پر دعوت

دیتے ہو۔

أزفع الشر بغود أو عمود

شر کو دفع کر دو خواہ لکڑی سے یا لوہے کی سلاخ سے۔

أذق من الهباء

غبار سے زیادہ باریک۔

أذق من الكحل

سرمے سے زیادہ باریک۔

أذق من الدقيق

آٹے سے زیادہ باریک۔

أذق من حد السيف

تلوار کی دھار سے زیادہ باریک۔

ذل على عاقيل اختاره

عظمدی کا انتخاب عظیمدی کو ظاہر کر دیتا ہے۔

الذال على الخير تكفا عليه

سکی تانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔

ذليل عقل المرء فعله وذليل علمه قوله

آدمی کی عقل کی دلیل اس کا عمل ہے اور اس کے علم کی دلیل اس کا

قول ہے۔

ليس الذل إلا بالرشاء

ڈول رشی کے بغیر کچھ نہیں۔ ڈول رشی کے بغیر بے کار ہوتا ہے۔ اسی

طرح آدمی کو قوت و ہمت اپنے رشتہ داروں ہی سے ہوتی ہے۔

ذمت ليجنبك قبل النوم مضطجعا

لیٹ کر سونے سے پہلے اپنے پہلو کے لئے بستر نرم کر لو۔

تسليت: نرم کرنا مطلب یہ ہے کہ حادثات کے نازل ہونے سے

پہلے ہی تیار رہو۔

ذمعة من عوزاء غنيمة باردة

اندھی کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نعمت ہے۔

أذناء من الشع

تسے سے زیادہ حقیر۔

صحیح کے معنی ہیں لوگوں کو باہم نزدیک کرنا اور ان کو جدا کرنے والی چیزوں سے دور کرنا۔

الذین منسّم الکرام
مکافات و جزاء شریفوں کی علامت ہے۔

ذ

ذنب استضع

بھیڑ یا بھیڑ بن گیا۔

الذنب خالیاً آسد

بھیڑ یا خالی میدان میں شیر ہوتا ہے۔

من لم یکن ذنباً اكلته الذناب

جو بھیڑ یا نہ بنے گا اس کو بھیڑیے کھا جائیں گے۔

ما الذناب وما مرقتہ

کیا کبھی اور کیا اس کا شور با۔ ”کیا پدی اور کیا پدی کا شورا“۔

الذبان يعرف وجه اللبان

کھیاں دودھ والے کے چہرے کو پہچانتی ہیں۔

ذخار الرجال اولی من اذخار المال

آدمیوں کا ذخیرہ کرنا مال کے ذخیرہ کرنے سے بہتر ہے۔ نیکی اور

احسان سے آدمیوں کا ذخیرہ کرو۔ کوشش میں سستی نہ کرو۔

ذقه تغبط

چکھ کر دیکھ تو غبطہ کرے گا۔

ذکر قنی الطعن و کنت نابیاً

تو نے مجھے نیزہ یا دد لایا بلکہ میں بھولا ہوا تھا۔

أذكر النعمة القديمة عليك وأنس النعمة الجديدة لك

اپنے اوپر پرانی نعمت کو یاد رکھو اور اپنے لئے نئی نعمت کو بھول جاؤ یعنی

پرانی نعمتوں پر شکر کرو اور نئی آسائش کی حرص نہ کرو۔

أذكر مع كل نعمة زوالها

ہر نعمت کے ساتھ اس کے زوال کو بھی یاد کرو۔

أذكر غائباً يقرب

غائب کا ذکر کر دو قریب ہو جائے گا۔

وكن ذكورا إذا كنت كدونا

جھوٹا بنے تو یاد بھی رکھ۔

ذل من لا سيف له

جس کے پاس تلوار نہیں وہ ذلیل ہو گیا۔

كُلُّ ذَنْبِي ذُوْنُهُ ذَنْبِي

ہر قریب سے ورے کو کوئی قریب موجود ہوتا ہے۔

أذني من حبل الورد

شرگ سے زیادہ قریب۔ حبل الورد۔ رگ گلو (شرگ)۔

ذنبك ما أنت فيه

تیری دنیا تو وہی ہے جس میں تو موجود ہے۔

الذهر يومان يوم لك ويوم عليك

زمانہ کے دو دن ہیں۔ ایک دن تیرے نفع کا ہے اور دوسرا تیرے

ضرر کا۔

لكل دهر الرجال

ہر زمانہ کے لئے آدمی ہوتے ہیں۔

ما الذهر الا هكذا فاصبر له

زمانہ ایسا ہی ہے لہذا صبر کرو۔

يدهن من قارورة فارغة

خالی شیشی سے تیل مل رہا ہے۔ یعنی وعدوں سے ہی خوش کرتا ہے۔

به داء طبعي

اس کو ہرن کی بیماری ہے۔ عرب کا خیال تھا کہ ہرن کبھی بیمار نہیں

ہوتا۔

لكل ذاء ذواء

ہر مرض کی دوا ہوتی ہے۔

بينهم ذاء الضرار

ان کے درمیان سوکوں (حسد) کی بیماری ہے۔

ذواء الذهر الضبر عليه

زمانہ کی سختیوں کا علاج صبر کرنا ہے۔

ان دواء الشقي ان تحوصه

پھننے کی دوا ناکٹنا ہے۔

نعم الدواء لشق ان تحف

بہترین دوا پرہیز ہے۔

أنا ذون هذا و فوق ما في نفسيك

میں اس سے تو کم ہوں مگر تیرے دل کی بات سے اوپر ہوں۔

كَمَا تَدِينُ تَدَانُ

جیسا بدلہ دو گے ایسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔

الذین النصيحة

دین خیر خواہی کا نام ہے۔ نصیح: کے معنی سینا اور جوڑنا ہیں۔ لہذا

ہیں جو فائدے کے لالچ میں اپنا سرمایہ بھی کھو بیٹھے۔
ذہب دممہ فزج الريح أو أدرج الرياح
اس کا خون ہوا کے راستے گیا۔ یعنی رائیگاں کہ اس کے قصاص کوئی
طلب گار نہ ہوا۔

ذَهَبَ بَيْنَ الصُّخْرَةِ وَالسُّكْرَةِ
وہ ہوش اور مدہوشی کے درمیان گیا۔ یعنی ایسی حالت میں کہ کچھ
شعور تھا اور کچھ نہ تھا۔

ذَهَبَ فِي السَّمِيِّ

وہ نضا میں چلا گیا۔

ذَهَبَتْ حَيْفٌ لَا دِيَانَهَا

گرم ہوا اپنی عادت کے مطابق چلی۔ یعنی آدمی عادت پر مجبور
ہے۔

إِنَّ ذَهَبَ عَيْرٌ فَغَيْرٌ

ایک گور خر نکل گیا تو کیا ایک تو جال میں موجود ہے۔

ذَهَبُوا تَحْتَ كُلِّ كَوْكَبٍ

ہر ستارہ کے نیچے گئے۔ ان لوگوں کے لئے کہتے ہیں جن کے سفر کے
راستے مختلف اور متضاد ہوں۔

ذَهَبُوا وَتَفَرَّقُوا بَدِي سَبَا أُرَادِي سَبَا

وہ اہل سبَا کی طرح چلے گئے یا منتشر ہو گئے۔ یعنی ایسے منتشر ہوئے
کہ پھر اجتماع ہی نہ ہوا۔ مثل قصہ طلب ہے۔ سبَا کے باشندوں کو
سیلاب عرم سے ڈرایا گیا تو وہ یمن سے نکل گئے اور جس کا جدھر نہ
اٹھا چلا گیا۔

يَذْهَبُ الْعُرْفُ بَيْنَ اللَّهِ وَالنَّاسِ

احسان خدا اور بندہ کے درمیان چلتا ہے۔ یہ مثال عطیہ کے شعر کا
آخری مصرع ہے۔

وَمَنْ يَفْعَلِ الْعُرْفَ لَا يَعْدِمُ جَوَائِزُهُ

جو احسان کرتا ہے اس کا احسان نہیں ٹٹتا۔

إِذْهَبَ إِلَى حَيْثُ أَلْقَتْ رَحْلَهَا أُمَّ قَسْعَمٍ

وہاں جا جہاں ام قسعم نے اپنا کجاوہ ڈالا تھا۔

وَمَنْ لَمْ يَذْذُ عَنِ حَوْضِهِ يَنْهَدِمِ

یعنی جو شخص اپنے تالاب کی مدافعت نہیں کرتا وہ منہدم ہو جاتا ہے۔

كُلُّ ذَاتٍ ذَيْلٌ تَخْتَالُ

ہر دامن والی ناز و ادا سے چلتی ہے۔

لَقَدْ ذَلَّ مَنْ بَالَتْ عَلَيْهِ الصَّعَالِبُ

وہ ذلیل ہو گیا جس پر لومڑیاں موت گئیں۔ یعنی بت کی پونجا ذلت
والی ہے۔

ذَلُّ لَوْاجِدٌ نَاصِرًا

بڑی ذلت ہے اگر مجھے مددگار مل جائے اس مہم کی مدد جستجو کو ذلت
سمجھتا ہوں۔

أَذَلُّ مِنْ بَيْضَةِ الْبَلَدِ

شتر سرخ کے چھوڑے ہوئے اٹڑے سے زیادہ ذلیل۔۔

أَذَلُّ مِنَ النُّقْدِ

حقیر بکری سے زیادہ ذلیل۔

أَذَلُّ مِنْ وَتْدِ

سیخ سے زیادہ ذلیل۔ کیوں کہ سیخ کو ہمیشہ ٹھوکا پیٹا جاتا ہے۔

أَذَلُّ مِنَ النُّعْلِ

جوتے سے زیادہ ذلیل۔

أَذَلُّ مِنَ الشُّعْبِ

تسمہ سے زیادہ ذلیل۔

أَذَلُّ مِنَ الْبَاسِطِ

سب سے زیادہ ذلیل وہ ہے جو کمینہ سے معذرت طلب کرے۔

أَذَلُّ النَّاسِ مُعْتَذِرٌ إِلَى لَيْتِيمٍ

سب سے زیادہ ذلیل وہ ہے جو کمینہ سے معذرت طلب کرے۔

إِنَّ الذَّلِيلَ الَّذِي لَيْسَتْ لَهُ عَضُدٌ

ذلیل وہ ہے جس کا بازو نہ ہو۔ مددگار نہ ہو۔

إِنَّ الذَّلِيلَ مَنْ ذَلَّ فِي سُلْطَانِهِ

درحقیقت ذلیل وہ ہے جو اپنے اقتدار کی جگہ بھی ذلیل ہو جائے۔

لَا ذَنْبَ لِي قَدْ قُلْتُ لِلْقَوْمِ اسْتَفُوا

میرا کوئی گناہ نہیں۔ میں نے قوم سے کہہ دیا کہ پانی لے لو۔

مَا ذُنْبِي يَدَاكِ أَوْ كَيْلُوكِ فَكَانَ نَفْحٌ

میرا کوئی قصور نہیں تیرے ہاتھوں نے اس کا منہ باندھا ہے اور

تیرے منہ کے پھینک بھری ہے۔ مشکیزے میں کم پھونک بھرنے کی

وجہ سے دریا میں ڈوبنے والے کے لئے مثال ہے۔

ذَهَبَ امْسِ بِمَافِيهِ

کل اپنے حالات کے ساتھ گزر چکی۔

ذَهَبَ الْجِمَارُ يَطْلُبُ قَرْنَيْنِ فَمَادَ مَصْلُومَ الْأَذْنَيْنِ

گدھا سینگ لینے گیا تھا۔ کان کٹوا کے لوٹا۔ اس شخص کے لئے کہتے

ر

إِنَّ السَّرَّاءِ لَيْسَ بِاللَّطْفِ

رائے محض گمان ہی سے نہیں ہوتی۔ حال کی ترغیب کے لئے بولا جاتا ہے۔

رَبُّكَ وَصَاحِبُكَ لَا تَكْذِبُ عَلَيْهِمَا

اپنے آقا اور دوست پر جھوٹ نہ لگاؤ۔

كَأَلْبُوطٍ وَالْمَرْعَى خَصِيْبٌ

بندھا ہوا اور چراگاہ سرسبز۔

إِنَّ تَفْشَاءَ الرَّيْثَةِ الْغَضَبِ

دودھ غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے یعنی ناراض کو تحفہ راضی کرتا ہے۔

رَجْعَ بَخْفَى حَنِينٍ

وہ حنین کے موزے لے کر لوٹا۔

حَتَّى يَرْجِعَ الذَّرْبُ فِي الضَّرْعِ

یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں لوٹ جائے۔ محال چیز کے لئے بولتے ہیں۔

حَتَّى يَرْجِعَ السَّهْمُ عَلَى قَوْحِهِ

یہاں تک کہ تیرا اپنے فوق (چلہ) پر لوٹ جائے۔ ناممکن چیز کے لئے بولتے ہیں۔

أَلرِّجَالُ أَرْبَعَةٌ

آدمی چار ہی قسم کے ہیں۔

هَلْ يُرْتَجَى مَطَرٌ مِنْ غَيْرِ مَسْحَابٍ

کیا بادل کے بغیر بارش کی امید کی جاتی ہے۔

لَا تَرْجُحْ خَيْرٌ مَنْ لَا يَرْجُو خَيْرٌ

ایسے شخص پر خیر کی امید نہ رکھو جو تیری خیر کی امید نہیں رکھتا۔

رَحِلَ بَعْضُ غَارِبًا مَجْرُوحًا

کیا وہ بھی زخمی کو ہان کو ہان کاٹتا ہے۔ غارب: کوہان کا بالائی حصہ۔

إِزْحَمَ مَنْ ذُوْنُكَ يَرْحَمُكَ مَنْ فَوْقَكَ

اپنے سے نیچے پر تم رحم کرو تا کہ تم سے اوپر وہ تم پر رحم کریں۔

أَرْحَصُ مِنَ الشُّمْرِ بِالْبَصْرَةِ

بصرہ میں کھجور سے زیادہ سستا۔

أَرْحَصُ مِنَ تَرَابٍ

مٹی سے بھی زیادہ سستا۔

رُدُّ الْحَجَرِ مِنْ حَيْثُ جَاءَكَ

پتھر جہاں سے آیا وہیں لوٹا دو۔

مَنْ يَرُدُّ السَّيْلَ عَلَى أَفْرَاجِهِ

رَأْسُ الدِّينِ صِحَّةُ الْيَقِينِ

اصل دین یقین کا صحیح ہونا ہے۔

كُلُّ رَأْسٍ بِهِ ضِدَاعٌ

ہر سر میں درد ہوتا ہے۔ ہر سر میں کوئی سودا ہے۔

رُبَّ رَأْسٍ خَصِيْبٍ لِسَانٍ

بہت سے سر زبان کے کاٹے ہوئے ہیں۔

كَأَنَّ عَلِيَّ زُوْبِهِمُ الطَّيْرِ

گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوتے ہیں۔

رَأَى الْكُوكِبَ ظَهْرًا

اس نے ظہر کے وقت ستارہ دیکھا۔

إِذَا زَايَتْ الرِّيْحُ غَاصِفَةً فَتَطْلَمُنْ

جب آندھی سخت دیکھو تو پست ہو جاؤ۔

رَأَى الضَّادِ وَالْوَارِدُ

اس کو ہر آنے جانے والے نے دیکھا ہے۔ سورج نکلا سب نے دیکھا۔

أُرِيهَا السَّهْمُ تَرِيْنِي الْقَمَرِ

میں اس کو سہا دکھا رہا ہوں اور وہ مجھے چاند دکھا رہی ہے۔ باریک باتوں کو نہ سمجھتا۔

يَرَى الشَّاهِدَ مَا لَا يَرَى الْغَائِبَ

حاضر وہ کچھ دیکھ لیتا ہے جو غائب نہیں دیکھتا۔

وَمَا تَرَانِي يَا جَمِيْلَ أَرَاكَ

جمیل جیسا تم مجھے جانتے میں بھی تمہیں جانتا ہوں۔

سَوْفَ تَرَانِي إِذَا انْجَلَى الْغُبَارُ أَمْسَ نَحْتِكَ أَمْ جَمَارٌ

جب غبار چمچے گا تو دیکھ لو گے کہ تمہارے نیچے گھوڑا ہے یا گدھا۔

أَرَانِيهَا النَّمْرَةَ أَرَكُنْهَا مَجْرُوةً

تو مجھے دکھا کہ وہ چنگبر ہے میں تجھے دکھا دوں گا کہ وہ برس رہا ہے۔

رَأَى الشَّيْخَ خَيْرٌ مِنْ مَشْهَدِ غَلَامٍ

بوڑھے کی رائے لڑکے کی موجودگی سے بہتر ہے۔

لَا رَأْيَ لِمَنْ لَا يُطَاعُ

اس شخص کی کوئی رائے نہیں جس کی اطاعت نہ کی جائے۔ حضرت علیؑ نے اپنے ساتھیوں پر خطاب کرتے ہوئے ایک خطبہ میں فرمایا۔

سیلاب کو اس کے بالائی راستوں کی طرف کون لوٹا سکتا ہے۔

مَنْ اسْتَرْعَى الذَّنْبَ ظَلَمَ
جس نے بھیڑیے کو چرواہا بنایا اس نے ظلم کیا۔ یعنی اس نے بکریوں
پر ظلم کیا۔

أَخْرَجَ الشَّيْلِي
بلندی سے آئی ہوئی سیلاب کی گزرگاہیں ناممکن بات کے لئے کہا
جاتا ہے۔

مَسْرُوعِي وَلَا أَكْوَالَةَ
چراگاہ موجود ہے مگر کھانے والی بکریاں موجود نہیں۔ ایسے مالدار
کیلئے بولا جاتا ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو۔

بَسَّ الرِّدْفَ لَا بُعْدَ نَعْمَ

ہاں کے بعد نہیں بہت براتالیج ہے۔

تَحْتَ الرَّغْوَةِ الصَّرْبِيخِ
جھاگ کے نیچے خالص دودھ موجود ہے۔

إِذَا رَزَقَكَ اللَّهُ مَغْرَفَةً فَلَا تُحْرِقْ بِذِكْ

جب اللہ نے تجھے چھچھو دیا ہے تو تو اپنا ہاتھ مت جلا۔

مِنَ الرَّفْشِ إِلَى الْعَرْشِ
بیلچے کے کام سے تخت کے اوپر۔

وَرِزْقُ اللَّهِ لَا كَذْكَ

اللہ کا دیا رزق ہے تیری محنت نہیں۔

تَرْفُضُ عِنْدَ الْمُحْفَظَاتِ الْكَتَائِفِ
غیرت انگیز موقعوں پر کیئے متفرق ہو جاتے ہیں۔

وَرِزْمَةٌ وَلَا دِرْزَةٌ

اونٹنی کی آواز نہیں مگر دودھ نہیں۔

أَرْفَعُ مِنَ السَّمَاءِ
آسمان سے زیادہ بلند۔

أَرْسِلْ حَكِيمًا وَلَا تُؤْصِبِهِ

عقل مند کو قاصد بناؤ اور اس کو وصیت نہ کرو۔

الرَّفِيقُ قَبْلَ الطَّرِيقِ
راستے سے پہلے ساتھی۔ ناموافق ساتھی سفر میں خصوصاً مصیبت کا
سبب ہوتا ہے۔

لَا رَسُونَ كَالْبُرْهَمِ

روپیہ جیسا کوئی قاصد نہیں۔

بِالرِّفَاءِ وَالْبَيْنِ
مواقت اور بچوں کے ساتھ شادی کرنے والے کے لئے دعا ہے۔

الرِّشْفُ الْقَعُ
تھوڑا تھوڑا اپنا زیادہ سیراب کرتا ہے۔ آہستگی اور وقار اختیار کرنے
کی ترغیب کے لئے کہتے ہیں۔

أَرْقِي مِنَ اللَّيْسِمِ
باؤسیم سے زیادہ لطیف۔

رَضِيَتْ مِنَ لَغِيْمَةِ بِالْأَيَابِ

میں واپس لوٹ آنے کی قیمت پر راضی ہوں۔

أَرْقِي مِنَ الْمَاءِ
پانی سے زیادہ پتلا۔

رَضِيَتْ مِنَ الْوَفَاءِ بِاللِّقَاءِ

میں تھوڑی سی وفاء پر راضی ہوں۔

أَرْقِي مِنَ زَقْرَاقِ السَّرَابِ
سراب (ریت) کی چمک سے زیادہ لطیف۔

مَنْ رَضِيَ عَنِ نَفْسِهِ كَثُرَ السَّخِيطِينَ عَلَيْهِ

جو اپنے نفس پر راضی ہو گیا اس نے اپنے پر ناراض ہونے والے
زیادہ کر لیا۔

أَرْقَبُ الْبَيْتَانِ الرَّاقِبَةُ
گھر کی حفاظت اس کے محافظ سے ہی کر۔ کسی نے گھر کی حفاظت
کیلئے اپنے غلام کو چھوڑ دیا۔ غلام سامان لے کر چلتا بنا تب اس نے
یہ جملہ کہا۔

إِذَا تَرَضَيْتَ اخَاكَ فَلَا اخَاكَ

جب تو نے محنت سے اپنے بھائی کو راضی کیا گو اب وہ تیرا بھائی ہی
نہیں۔

كَالرَّاقِمِ عَلَى الْمَاءِ
پانی پر لکھنے والے کی طرح بے وفا۔

رَضْنَا النَّاسَ غَايَةً لَا تُذْرِكُ

لوگوں کی رضامندی ایسا مقصد ہے جو کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔

إِرْقُ عَلَى ظَلْمِكَ

لَا تُكُنْ رَطْبًا فَغَضْرٌ وَلَا يَابَسًا فَكُغْسَرٌ

نہ اتنا تر ہو جا کہ تجھے نیچوڑ لیں اور نہ اتنا خشک کہ تجھے توڑ دیں۔

اپنے لنگڑے پن کا خیال رکھ کر چڑھو۔

رَكِبَ جِنَاحِي النَّعَامَةِ

وہ شترمرغ کے بازوں پر سوار ہو گیا۔

يُرَكَّبُ الصَّغْبَ مَنْ لَا ذُلُولَ لَهُ

سرکش پر وہ سوار ہو جس کے پاس سدھایا ہوا نہ ہو۔ آسانی سے مقصد حاصل ہو تو سخت رویہ کیوں اختیار کرے۔

مَنْ لَمْ يَرُكَّبِ الْاَهْوَالَ لَمْ يَنْبَلِ الْاَمَالَ

جو ہولناک اشیاء پر سوار نہ ہوگا وہ امیدیں حاصل نہ کر سکے گا۔ مصیبت کے بغیر راحت نہیں ملتی۔

تَكَرَّجِبُ الْاِنْبِيْنِ

دوسواریوں کا سوار۔ جو شخص کاموں میں متردد ہو۔

رَمَى الْكَلَامَ عَلَيَّ عَوَاهِنَه

اس نے کلام کو بھجور کی ٹہنیوں پر دوے مارا۔

رَمَاهُ اللّٰهُ بِبَنِيَّةٍ لَا اَخْتَّ لَهَا

اللہ تعالیٰ اس پر ایسی رات لائے جس کی بہن کوئی دوسری رات نہ ہو۔

رَمَاهُ اللّٰهُ مِنْ كُلِّ اَكْمَبَةٍ بَعَجِرٍ

اللہ تعالیٰ اس کو ہریلے سے پتھر مارے۔

رَمَاهُ بِاِحْقَافِ رَاسِه

اس کے سر کی کھوپڑی پر مارا۔

رَمَاهُ اللّٰهُ بِبَنِيَّةِ الْاِثَافِي

اللہ تعالیٰ اس کو چوہے کے تیسرے پتھر کے ساتھ مارے۔

رَمَاهُ بِدَا لِدَنْبِ

اللہ تعالیٰ اس کو بھیڑیے کے مرض (نہ ختم ہونے والی بھوک) میں مبتلا کرے۔

رَمَاهُ بِبَنِيَّةِ الصَّائِبِ

اس کو اپنے نشانے پر لگنے والے تیر سے مارا۔

رَمَتْنِي بِذَآئِهَا وَانْسَلَّتْ

اپنی بیماری میری طرف منسوب کر دی اور کھسک گئی۔

لَا تَنْزِمُ سَهْمًا يَفْتَسِرُ عَلَيْكَ رُدُّهُ

وہ تیر مت پھینک جس کا لوٹنا تجھ پر مشکل ہو۔

قَبْلَ الرُّمِي يَبْرَاشُ السُّهْمِ

تیر پھینکنے سے پہلے اس کو پر لگایا جاتا ہے۔ یراش یعنی تیر کے پر لگائے گئے۔ انہیں معنی میں کہا جاتا ہے قبل الرماء۔

تَمَلَّأَ الْكِنَانِ

تیر اندازی سے پہلے ترکش بھرنے جاتے ہیں۔

مَا كُنْ رَأْسِي غَرَضُ يَصِيبُ

ہر نشانہ ہا ز نشانہ پر نہیں مار سکتا۔

قَبْلَ الرَّمَاءِ تَمَلَّأَ الْكِنَانِ

تیر اندازی سے پہلے ترکش بھرا جاتا ہے۔

رُبُّ رَمِيَةٍ مِنْ غَيْرِ رَامٍ

بھی تیر اندازی وہ بھی کر لیتا ہے جو تیر اندازی نہیں جانتا۔

عِنْدَ الرِّهَانِ تَعْرِفُ السُّوَابِقِ

گھوڑ دوڑ کے وقت آگے نکلنے والے گھوڑے پہچانے جاتے ہیں۔

اِسْتِرَاحُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ

جس کو عقل نہیں اس نے راحت پائی۔ غم اور فکر عقل کے ساتھ ہیں۔

الرَّائِدُ لَا يُكْذِبُ اَهْلَهُ

پیش رو جاسوس۔ اپنے لوگوں سے جھوٹ نہیں کہتا۔ راند: وہ شخص جو قافلے سے آگے گھاس و پانی کی تلاش کے لئے جاتا ہے اگر وہ جھوٹ بولے گا تو لوگوں کے ساتھ خود بھی ہلاک ہو جائے گا۔

اَزْوَعٌ مِنْ نَعْلَيْهِ

لومڑی سے زیادہ چال باز۔

اروغانا یا تعالب وقد علفت بالجبال

کیا اب بھی حیلہ بازی کرے گی اے لومڑی جب کہ تو جبال میں پھنس چکی ہو۔

اَزْوَى مِنْ حَبِيَّةٍ

سانپ سے زیادہ سیراب۔

اَزْوَى مِنْ صَبِّ

گو سے زیادہ سیراب۔

الرَّوِيَّةُ اِخْتَدُ الشَّامِتِينَ

نقل کرنے والی دو گالی دینے والوں میں سے ایک ہے۔

رُبُّ زَنْبٍ يَعْقِبُ فَوْقًا

بسا اوقات دیر کرنا قوت ہونے کا نتیجہ دیتا ہے۔ یعنی تاخیر ناکامی کا سبب ہوتی ہے۔ ریث: دیر کرنا۔

اِنْ كُنْتُمْ رِيْعًا فَقَدْ لَاقَيْتُمْ اَعْصَارًا

اگر تو ہوا تھا تو گولے سے مل گیا۔ سیر کو سوا سیر مل گیا۔

ان اردت المعاجزة فقبل المناجزة

اگر آزیلینا چاہتا ہے لڑائی یا قنا ہونے سے پہلے۔ صلح کرنے والے

کے لئے بولا جاتا ہے۔

أريد حباءً و يريد قتلی

میں اس کو عطیہ دینے کا ارادہ رکھتا ہوں اور وہ میرے قتل کا ارادہ (رکھتا ہے) کرتا ہے۔

إِذَا زَادَ اللَّهُ هَلَاكًا نَمَلَةً انبت لها جنًا خين

جب جیونئی کی موت آتی ہے تو اس کے پر نکل آتے ہیں۔

مَنْ لَمْ يَرْذُكْ فَلَا تُرْذُهُ

جو شخص تیرا ارادہ نہ کرے تو اس کا ارادہ نہ کر۔

كَمْ مِمن مريد و مُراد

ارادہ اور مراد میں بڑا فاصلہ ہے۔

لِكُلِّ زَمَانٍ رَجَالٌ

ہر زمانے کے لئے کچھ لوگ ہوتے۔

هُمَا زَنْدَانٌ فِي وَعَاءٍ

وہ دونوں ایک ہی برتن میں آگ سلگانے والے ہیں۔

أَرْهَى مِنْ وَعَلٍ

کو سے زیادہ مظہر۔

أَرْهَى مِنْ طَاوُسٍ

طاووس سے زیادہ مظہر اتراتا ہے۔

رُزِغْتُهَا تَرْدُ ذُخْبًا

ایک چھوڑ کر زیارت کرنا کہ محبت زیادہ ہو۔ روز کا آنا جانا قد کھودینا ہے۔

الزَيْتُ فِي الْعَجِينِ لَا يَضِيغُ

روغن آنے میں ضائع نہیں ہوتا۔ کھی کہاں گیا کچھوئی میں۔

رشته داروں کے ساتھ احسان کرنے والے کے لئے بولتے ہیں۔

زَادَ فِي الطَّنْبُورِ نَعْمَةً

اس نے طنبور میں ایک نغمے کا اضافہ کیا۔

زَيْنٌ فِي عَيْنِي وَالْبِدْءُ

باپ کی نظر میں بیٹا خوبصورت ہوتا ہے۔

اس شخص کے لئے بولا جاتا ہے جو اپنے اہل و عیال کو اچھا سمجھے۔

ز

جَعَلَ الزُّجَّ قَدَامَ السَّنَاتِ

اس نے زج کرانی کے سامنے لگا لیا۔ حالانکہ اس کی جگہ انی کے پیچھے ہے۔

إِنْ لَمْ تُزَاجِمْ لَمْ يَقَعْ فِي الْخُرُوجِ شَيْءٌ

اگر تو مزاحمت نہ کرتا تو خرچین میں کوئی چیز نہ پڑتی۔

مَنْ يَزْرَعِ الشُّوكَ لَا يَخْصُدُ بِهِ الْعَيْنَا

جو کانٹے بوئے گا اس سے انگوٹھیں کاٹے گا۔ انگوٹھ توڑنے کے لئے قطف العنب بولتے ہیں۔

كَمَا تَزْرَعُ تَخْصُدُ

جیسا بوئے گا ویسا کاٹے گا۔

هُوَ أَرْزُقُ الْعَيْنِ

وہ ٹیلگوں آنکھ والا ہے۔

لِكُلِّ رَعْمٍ خَضَمٌ

ہر گمان کے لئے کوئی مقابل ہے۔

رَقْدَهُ زَقُّ الْحَمَامَةِ فَرَّخَهَا

اس کو چگا دیا جیسے کبوتری اپنے بچے کو چگا دیتی ہے۔ کسی کو کوتاہی کے بغیر محبت و شفقت سے پرورش کی۔

إِذَا أَلَّ الْعَالِمُ بِذَلَّتِهِ عَالِمٌ

عالم کی لغزش سے ایک جہان لغزش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

وَزَلَّةُ الْبُرَايِ تَنْسِي زَلَّةَ الْقَدَمِ

رانے کا پھسلنا قدم کے پھسلنے کو بھلا دیتا ہے۔ رانے کی لغزش شوگر لگنے سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔

س

إِنْ سَأَلَ الْخَفَّ وَإِنْ سَأَلَ سَوْفٌ

اگر وہ سوال کرتا ہے تو لپٹ جاتا ہے اور اگر اس سے سوال کیا جاتا ہے تو ٹال دیتا ہے۔

نَسَأَلِي أُمَّ الْخَيْارِ جَمَلًا. نِيْمَسِي زَوَيْدًا وَيَنْجُونِ أَوْلَا

ام خیار مجھ سے ایسا اونٹ مانگتی ہے جو آہستہ چلے اور اول آئے۔

دشوار چیز مانگتی ہے۔

سَأَلِ اللَّهُ لَا يَعْجِبُ

خدا سے مانگنے والا حرام نہیں رہتا۔

سَبِكٌ مَنْ بَلَغَكَ السَّبَا

اسی نے تمہیں گالی دی جس نے تمہارے پاس گالی پہنچائی۔

سُخَا وَاصْذِقْ

مجھے گالی دو اگر کچھ کہو۔ سچ بولنے پر رغبت کے لئے بولا جاتا ہے۔

مَالَةٌ سَبَدٌ وَلَا كَبَدٌ

نداس کے بال ہیں نہ اون۔

أَسْرَعُ مِنَ الْمُنْعِ

نظر سے زیادہ تیز رفتار۔

سَبَقَ سَيْلُهُ مَطْرَةَ

اس کا سیلاب اس کی بارش سے بھی پہلے آ گیا۔ نفع سے پہلے نقصان ہو گیا۔

أَسْرَعُ مِنَ لَمْعِ الْبَصْرِ

آنکھ جھپکنے سے زیادہ تیز رفتار۔

سَبَقَ السَّيْفُ الْغَدْلَ

تلوار ملامت سے سبقت لے گئی۔ ضہ ابن اد نے اپنے لڑکے کے قاتل کو حرم میں قتل کر دیا۔ لوگوں نے ملامت کی تو اس نے یہ جملہ کہا۔

أَسْرَعُ مِنْ رَجْعِ الصَّدَى

آواز سے باگڑشت سے زیادہ تیز رفتار۔

أَسْرَعُ مِنَ الْيَدِ الْيَمْنَى

منہ کی طرف ہاتھ سے زیادہ تیز رفتار۔

سَبَقَ دِرْتُهُ غَرَارَهُ

اس کے زیادہ دودھ سے کم دودھ سابق ہو گیا۔ شرنخیر سے پہلے آ گیا اور احسان سے پہلے ہی بدی کی۔

يَسْرُقُ الْكُحْلَ مِنَ الْعَيْنِ

آنکھ سے سرمہ چرا لیتا ہے۔

أَسْرَأَى مِنَ الْخِيَالِ

خیال سے زیادہ چلنے والا۔

مَنْ سَابَقَ الدَّهْرَ غَتَرَ

جو زمانہ سے آگے بڑھے گا وہ پھل جائے گا۔

السَّعِيدُ مِنَ كُفْيِ

نیک بخت وہ ہے جس کو استغناء حاصل ہو گیا۔

مَا اسْتَرَّ مَنْ قَادَ الْجَمَلِ

جو اونٹ کو کھینچ کر لے جائے گا وہ چھپا نہیں رہے گا۔

بِالسَّاعِدِ يَنْطِشُ الْكُفَّ

کلائی کے ذریعہ ہی ہاتھ مضبوط پکڑتا ہے یعنی کامیابی کے لئے قوت و قدرت ضروری ہے۔ جو میرے پاس نہیں اور مددگاروں کی کمی کے موقع پر بھی مثال دی جاتی ہے۔ اسی طرح کا ایک شعر ہے

سَخَابَةُ صَفِّ عَنْ قَلِيلِ تَفْشَعُ

گرمی کی بدلی جلد ہی چھٹ جاتی ہے۔ کم ٹھہرنے والے کے لئے مثال ہے۔

اولئك اخوانى الذين رايتهم

وما الكف الا اصبع ثم اصبع

یہ میرے بھائی ہیں جن کو تو نے دیکھ لیا اور ہاتھ انگلی در انگلی کے علاوہ نہیں۔ ایک ایک انگلی سے ہی پورا ہاتھ بنتا ہے۔

لَمَّا اسْتَدَّ سَاعِدَهُ وَمَانَى

جب اس کی کلائی درست ہو گئی تو اس نے مجھے ہی تیر مارا۔

الْيَسِيرُ اَمَانَةٌ

رازا ایک امانت ہے۔

مَالُهُ سَيْغَتُهُ وَلَا مَغْنَةٌ

نداس کے پاس تھوڑا کھانا ہے نہ زیادہ۔

سِبْرُكٌ مِنَ ذِمِّكَ

تیرا راز تیرے خون سے ہے۔ بسا اوقات افشائے راز موت کا سبب بن جاتا ہے۔

مَنْ سَعَى رُغْنَى

جو دوڑا وہ چر گیا۔

مَالُهُ سَارِحَةٌ وَلَا رَائِحَةٌ

اس کے پاس نہ چرنے والے جانور ہیں نہ چر کر واپس آنے والے۔

رُبَّ سَاعٍ لِقَاعِيدِ

بعض آدمی تجھے ہونے کے لئے دوڑتے ہیں۔

يَسْتَفُّ التُّرَابَ وَلَا يَخْضَعُ لِأَخِي عَلِيٍّ بَابِ

خاک پھانکنا ہے مگر کسی کے دروازے پر نہیں جھکتا۔

أَسْرَعُ مِنَ الْبُرْقِ

بجلی سے زیادہ تیز رفتار۔

سَفِيحَةٌ لَمْ يَجِدْ مَسَافَهَا

سبک سر بے وقوف ہے کسی گالی دینے والے سے واسطہ نہیں پڑا۔

أَسْرَعُ مِنَ الْبَيْنِ

جدائی سے زیادہ تیز رفتار۔

حَيْثَمَا سَقَطَ لَقَطَ

جہاں کہیں جا پڑا وہیں سے کچھ اٹھالیا۔ جیلہ ساز اور چالاک شخص کے

أَسْرَعُ مِنَ الطَّرْفِ

نگاہ سے زیادہ تیز رفتار۔

لئے بولتے ہیں ”جہاں دیکھا تو اپرات وہیں گزار دی ساری رات“۔

جس کی باطنی خلعت درست ہوگی اس کا ظاہر بھی سالم ہوگا۔
 اِنْ تَسَلَّمَ الْجَلَّةُ فَالِنَسِيبِ هَدْرُ
 اگر بڑے اونٹ بیچ جائیں تو بوزھی اونٹنیاں رائیگاں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب قیمتی چیز بیچ جائے تو بے قیمت چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔

يُسْقَى مِنْ كُلِّ يَدِيكَاسِ
 ہر ہاتھ سے ایک پیالہ پی لیتا ہے۔
 سَاقِيَةٌ لَا تُعْجِرُ بُحْرًا
 چھوٹی ہر سمندر کو گدگد نہیں کرتی۔
 سَكَّتِ الْفَا وَنَطَقَ خَلْقًا
 ہزار لفظ خاموش رہا۔
 السُّكُوتُ أَخْوَا الرِّضَا
 خاموشی رضامندی کی طرح ہے۔
 زُبُّ سَكُوتٍ أَبْلَغُ مِنْ كَلَامٍ
 بہت سی خاموشیاں کلام سے زیادہ بلیغ ہوتی ہیں۔
 زُبُّمَا كَانَ السُّكُوتُ جَوَابًا
 بسا اوقات خاموشی ہی جواب ہوتی ہے۔
 سَلَعُ الْخُبَارَى سَلَاخَةٌ
 سرخاب کا بیٹ کرنا ہی اس کا ہتھیار ہے۔
 سَلَاخُ الضُّغْفَاءِ الشِّكَايَةُ
 کمزور دل کا ہتھیار شکایت ہی ہے۔

اَسْمَحَ مِنْ لَاقِطَةٍ
 پرندے سے زیادہ نجی جو اپنے پیٹ کا کھانا اپنے بچوں کو چکا دیتا ہے۔
 لَقَدْ اسْمَعْتُ لَوْ نَادَيْتَ حِينَا
 اگر تو کسی زندہ پکارتا تو اس کو سنا دیتا۔
 اَسْمَعُ جَفَجَةً وَلَا أَرَى طِخْنًا
 چھلکی کی گڑگڑاہٹ تو سنتا ہوں مگر آٹا دکھائی نہیں دیتا۔ بزدل اور بخیل کا شور تو سنائی دیتا ہے مگر عمل نظر نہیں آتا۔
 اَنْ تَسْمَعَ الْمُعْيِدِي خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَرَاهُ
 تیرا معیدی کو سننا اس کو دیکھنے سے بہتر ہے۔ منذر ابن مامہ السماء نے کہا تھا جو مشفق بن حمرۃ المعیدی کے متعلق اچھی خبریں سن کر خوش فہمی رکھتا تھا۔ دیکھا تو وہ انتہائی بد صورت نکلا۔ اس کا یہ قول ضرب المثل بن گیا۔

اِذَا لَمْ تَسْمَعْ فَالْمَعُ
 جب تو سنانہ سکے تو اشارہ ہی کر دے۔
 اِسْمَعُ وَلَا تُصَدِّقِ
 سن لے خواہ تصدیق نہ کر۔
 سَامِعًا دَعْوَتِ
 تونے سننے والے کو پکارا ہے۔
 بَيْنَ سَمْعِ الْاَرْضِ وَنَصْرِهَا
 زمین کے کان اور آکھ کے درمیان۔
 اَسْمَعُ مِنْ فِرَادِ
 چھڑی سے زیادہ سننے والا۔ کہتے ہیں کہ چھڑی ایک دن کی مسافت کی راہ سے اونٹ کے پاؤں کی آواز سن کر اس طرف حرکت شروع کر دیتی ہے۔

لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَا قِطَّةَ
 ہر گرنے والی چیز کو کوئی اٹھانے والی مل جاتی ہے۔
 يَسْقَى مِنْ كُلِّ يَدِيكَاسِ
 ہر ہاتھ سے ایک پیالہ پی لیتا ہے۔
 سَاقِيَةٌ لَا تُعْجِرُ بُحْرًا
 چھوٹی ہر سمندر کو گدگد نہیں کرتی۔
 سَكَّتِ الْفَا وَنَطَقَ خَلْقًا
 ہزار لفظ خاموش رہا۔
 السُّكُوتُ أَخْوَا الرِّضَا
 خاموشی رضامندی کی طرح ہے۔
 زُبُّ سَكُوتٍ أَبْلَغُ مِنْ كَلَامٍ
 بہت سی خاموشیاں کلام سے زیادہ بلیغ ہوتی ہیں۔
 زُبُّمَا كَانَ السُّكُوتُ جَوَابًا
 بسا اوقات خاموشی ہی جواب ہوتی ہے۔
 سَلَعُ الْخُبَارَى سَلَاخَةٌ
 سرخاب کا بیٹ کرنا ہی اس کا ہتھیار ہے۔
 سَلَاخُ الضُّغْفَاءِ الشِّكَايَةُ
 کمزور دل کا ہتھیار شکایت ہی ہے۔
 اَسْلَخُ مِنَ الْخُبَارَى
 سرخاب سے زیادہ بیٹ کرنے والا۔
 اَلْسُلْطَانُ ظُلُّ اللّٰهِ فِي اَرْضِهِ
 بادشاہ خدا کی سر زمین پر خدا کا سایہ ہے۔ مخلوق کو اس سایہ میں پناہ ملنی چاہئے۔
 لَا سُلْطَانَ بِلَا رِجَالٍ
 بغیر آدمیوں کے کوئی بادشاہ نہیں بنتا۔
 لَيْسَ لِلسُّلْطَانِ الْعِلْمُ زَوَالٌ
 سلطان علم کو زوال نہیں۔
 مَنْ سَلَكَ الْجِدَّ دَامِنَ الْعَنَارِ
 جو شخص ہموار زمین پر چلے گا وہ پھلنے سے محفوظ رہے گا۔
 اِنْ سَلِمْتَ مِنَ الْاَسَدِ فَلَا تَطْمَعُ فِي صَيْدِهِ
 اگر تو شیر سے بچ جائے تو اس کا شکار کالایج نہ کر۔
 مَنْ سَلِمْتَ مِنْ سَرِيْرَتِهِ سَلِمْتَ مِنْ غَلَابَتِهِ

قَدْ اسْتَسْمُنْتُ ذَاوَرَمَ
تو نے ورم والے کو مونا سمجھ لیا ہے۔ ظاہر سے فریب کھا ہے۔
سَمْنُكُمْ هَرِيْقٌ فِي اَرْنَبِكُمْ
تمہارا گھی تمہاری کھال میں ہی اثریل دیا گیا ہے۔ تمہارا مال تم ہی پر
خرچ ہوا۔

ہر سیاہ چیز گجور نہیں ہوتی۔
لَوْ ذَاتُ سَوَارٍ لَطَمْتَنِي
کاش کہ کوئی گنکن والی عورت مجھے طمانچہ مارتی۔
فَمَا سَوَاكَ بِنَفْسِهِ مَا ظَلَمَكَ
جس نے تم کو اپنے نفس کے برابر رکھا اس نے تجھ پر ظلم نہیں کیا۔
سَاوَاكَ عِنْدَ هَرِيْقٍ
تیرے غیر کا ظلام تیرے برابر ہے۔ کیونکہ وہ تمہاری حکم برداری سے
آزاد ہے۔

اَسْمُنُّ مَنْ يَغُرُّ
مگر سے زیادہ فرہ۔

اِسْمُوِي لِسَكِيْنٍ وَاِنْ اَعُوْجَ لِمَنْجَلٍ
وہ اگر سیدھا ہو تو چھری ہے۔ ٹیزھا ہو جائے تو درانتی ہے۔

مَنْ لِي بِالْمَسَالِحِ بَعْدَ الْمَارِحِ
کون میرے لئے مبارک ہوگا منحوس کے بعد۔

بِسْرٍ وَقَمْرٍ لَكَ
چلا جا اور چاند تیرے واسطے ہے۔ رات میں چلنے کے لئے چاند کی
روشنی کو خیر سمجھ۔

كَانَ سُنْدَانَا فَصَارَ مَطْرُقَةً
وہ اہرن تھا پھر ہتھوڑا بن گیا۔

سَيْرَةُ الْمَرْءِ تَنْبِيْ عَنِ سَرِيْرَتِهِ
آدمی کی عادت اس کی باطنی شرافت کی خبر دیتی ہے۔

اِذَا كُنْتَ سُنْدَانًا فَاصْبِرْ وَاِذَا كُنْتَ مَطْرُقَةً فَارْجِعْ
اگر تو اہرن ہے تو صبر کر اور اگر ہتھوڑا ہے تو درو پہنچا۔

سَمِيْنٌ فِي حُوْرَةٍ
دو تھے ایک سوراخ میں۔

اَسْهَرُ مِنَ النَّجْمِ
ستارے سے زیادہ جاگنے والا۔

سَالٍ بِهَمِّ السَّيْلِ وَجَاشَ بِنَاءِ الْجَوْرِ
ان کو سیلاب نے بہا دیا اور ہم پر سندر چڑھ آیا۔

اَسْهَرُ مِنْ قَطْرَبٍ
قطرب (رات بھر جاگنے والا کبیرا) سے زیادہ جاگنے والا۔

سَالٍ بِهَمِّ السَّيْلِ وَجَاشَ بِنَاءِ الْجَوْرِ
ان کو سیلاب نے بہا دیا اور ہم پر سندر چڑھ آیا۔

سَمْنُكُمْ لَكُمْ وَسَمْنُكُمْ عَلَيْنَا
ایک حصہ تیرے موافق دوسرا تیرا مخالف۔

سَمْنُكُمْ لَكُمْ وَسَمْنُكُمْ عَلَيْنَا
اس نے غلط سنا اور غلط جواب دیا۔

اَسَاءَ سَمْعًا فَاَسَاءَ اِجَابَةً
اس نے غلط سنا اور غلط جواب دیا۔

اَسَاءَ سَمْعًا فَاَسَاءَ اِجَابَةً
مجبور شخص نے برا کام کیا۔

اَسَاءَ رَعِيًّا فَاسْفَى
اس نے بری طرح چرایا اور پھر پانی بھی پلا دیا۔ اس نے کم چرانے
کے بعد خالی پیٹ سے پانی پلا دیا۔ کام اچھا نہ کیا اور اصلاح کی
کوشش سے مزید فساد پھیلادیا۔

اَسَاءَ رَعِيًّا فَاسْفَى
سَوْءُ الظَّنِّ مِنْ شِدَّةِ الضَّنِّ
بدگمانی دوئی کی وجہ سے ہوتی۔ اس کے ہم معنی ہے ان
الشفیق بسوء ظن مولع: مہربان بدگمانی کا حریف ہے۔

سَيِّدُ الْقَوْمِ اَسْفَاهُمْ
قوم کا سردار سب سے زیادہ بد بخت ہوتا ہے۔ جو ہر ایک کی ڈھال
بن کر تمام سختیاں اپنے سر پہ لیتا ہے۔

سَيِّدُ الْقَوْمِ اَسْفَاهُمْ
قوم کا سردار سب سے زیادہ بد بخت ہوتا ہے۔ جو ہر ایک کی ڈھال
بن کر تمام سختیاں اپنے سر پہ لیتا ہے۔

مَا كُنَّ سَوْدَاءَ تَمْرَةٍ
کے قصاص کے لئے کھڑا ہو گیا۔ اسی طرح بنی تغلب اور بکر کے

اَسَاءَ رَعِيًّا فَاسْفَى
سَوْءُ الظَّنِّ مِنْ شِدَّةِ الضَّنِّ
بدگمانی دوئی کی وجہ سے ہوتی۔ اس کے ہم معنی ہے ان
الشفیق بسوء ظن مولع: مہربان بدگمانی کا حریف ہے۔

سَيِّدُ الْقَوْمِ اَسْفَاهُمْ
قوم کا سردار سب سے زیادہ بد بخت ہوتا ہے۔ جو ہر ایک کی ڈھال
بن کر تمام سختیاں اپنے سر پہ لیتا ہے۔

مَا كُنَّ سَوْدَاءَ تَمْرَةٍ
کے قصاص کے لئے کھڑا ہو گیا۔ اسی طرح بنی تغلب اور بکر کے

مَا كُنَّ سَوْدَاءَ تَمْرَةٍ
کے قصاص کے لئے کھڑا ہو گیا۔ اسی طرح بنی تغلب اور بکر کے

مَا كُنَّ سَوْدَاءَ تَمْرَةٍ
کے قصاص کے لئے کھڑا ہو گیا۔ اسی طرح بنی تغلب اور بکر کے

س

اَسَاءَ رَعِيًّا فَاسْفَى

سَاءَ رَعِيًّا فَاسْفَى
سَاءَ رَعِيًّا فَاسْفَى
سَاءَ رَعِيًّا فَاسْفَى

سَاءَ رَعِيًّا فَاسْفَى
سَاءَ رَعِيًّا فَاسْفَى
سَاءَ رَعِيًّا فَاسْفَى

سَاءَ رَعِيًّا فَاسْفَى
سَاءَ رَعِيًّا فَاسْفَى
سَاءَ رَعِيًّا فَاسْفَى

سَاءَ رَعِيًّا فَاسْفَى
سَاءَ رَعِيًّا فَاسْفَى
سَاءَ رَعِيًّا فَاسْفَى

سَاءَ رَعِيًّا فَاسْفَى
سَاءَ رَعِيًّا فَاسْفَى
سَاءَ رَعِيًّا فَاسْفَى

درمیان لڑائی چھڑ گئی۔ جو چالیس سال تک جاری رہی۔ اسی وجہ سے نحوست میں بسوس کی نحوست ضرب اللش ہو گئی۔

أَشَامٌ مِنْ حِفَارٍ

قبر کھودنے والے سے زیادہ منحوس۔

أَشَامٌ مِنْ دَاحِسٍ

داحس سے زیادہ منحوس۔

أَشَامٌ مِنْ زَعِيفِ الْحَوْلَاءِ

طولیس سے زیادہ منحوس۔

أَشَامٌ طُوَيْسٍ

منشم کے عطر سے زیادہ منحوس۔

أَشَامٌ مِنْ عَطْرِ مَنْشَمٍ

منشم کے عطر سے زیادہ منحوس۔ ایک عطر بیچنے والی عورت تھی جو جنگ پے آمادہ کرنے کے لیے عطر لگاتی تھی۔

أَشَامٌ مِنْ غُرَابِ الْبَيْتِ

جدائی کے کوئے سے زیادہ منحوس۔ بدوی جب کسی جگہ سے خیمے کو اٹھاتے تو کوئے اس جگہ کھانے کی اشیاء پر ٹوٹ پڑتے اسی لئے بدقال لے کر ان کو جدائی کے کوئے کہتے۔

مَنْ شَبَّ عَلِيٌّ خُلِقَ شَابَ عَلَيْهِ

جس عادت پر کوئی جوان ہوا ہے۔ اسی پر بوڑھا ہوگا۔

الشَّبَابُ مَطِيئَةُ الْبَهْهَلِ

جوانی جاہلت کی سواری ہے۔

الشَّبَعَانُ يَفْتُ لِلْحَجَّاعِ فَمَا بَطِينًا

پیٹ بھرا بھوکے کے لئے آہستہ روٹی توڑتا ہے۔

ان هَذَا الشَّيْلِ مِنْ ذَاكَ الْإِسْدِ

یہ بچہ بھی اسی شیر کا ہے۔

مَنْ أَشَبَّ أَبَاهُ فَمَا ظَلَمَ

جو اپنے باپ کے مشابہ ہو اس نے زیادتی نہیں کی۔

أَشْبَهُ مِنَ الْمَاءِ بِالْمَاءِ

اس سے زیادہ مشابہ جیسے پانی سے پانی۔

إِنَّهُ لَا أَشْبَهُ بِهِ مِنَ الثَّمَرَةِ بِالثَّمَرَةِ

وہ یقیناً اس سے بھی زیادہ مشابہ ہے جیسے ایک کھجور دوسری سے۔

مَا أَشْبَهَهَا حِجَلُ الْحِبَالِ بِأَلْوَانِ صُغْرَهَا

پھاڑوں کی چوکور اس کی چٹانوں کے رنگ سے کتنی مشابہ ہوتی ہے۔

مَا أَشْبَهُهُ اللَّيْلَةُ بِالْبَارِحَةِ

آج کی رات کل کی گزشتہ رات سے کس طرح مشابہ ہے۔

الشَّبَهَةُ أَخْتُ الْحَرَامِ

شبہ حرام کی بہن ہے۔

يَنْشَبِعُ مَرَّةً وَيَأْمَسُ أُخْرَى

کبھی زخمی کرتا ہے کبھی غم خواری کرتا ہے۔

أَشْجَعُ مِنَ لَيْثٍ

شیر سے زیادہ بہادر۔

أَشْجَعُ مِنْ أَسَامِهِ

شیر سے زیادہ بہادر۔ اسامہ شیر کا علم ہے۔

أَلْشَّجَاعُ مَوْتِي

بہادر سے کترتے ہیں۔

إِنْ لَمْ يَكُنْ شُجْعَمُ قَفْقَشٍ

اگر چربی نہ ہو تو اون ہی کمی۔

شَخْبٌ فِي الْإِنَا وَشَخْبًا فِي الْأَرْضِ

دودھ ایک دھار برتن اور ایک زمین پر۔

وَلَمَّا اشْتَدَّ مَسَاعِدُهُ رَهْمَانِي

جب اس کی کلائی مضبوط ہو گئی تو اس نے میرے ہی تیر مارا۔

أَشَدُّ حُزْنًا مِنَ الْخَمْسَاءِ عَلِيٌّ صَخْرٌ

صخر پر غم کرنے والی خنساء سے بھی زیادہ غمگین۔ صخر بن عمرو سلیمی بنی

اسد پر ڈاکہ ڈالنے کے دوران تیر سے زخمی ہو کر مر گیا تو اس کی بہن

خنساء نے بڑے دردناک مرضی کہے اور شدت غم میں بھائی کی قبر

کی بجائے بن گئی۔ حتیٰ کہ مر گئی۔

لِلشَّدَائِدِ تَذَخَّرُ الرُّجَالُ

تختیوں کے لئے آدمیوں کا ذخیرہ کیا جاتا ہے۔

عِنْدَ الشَّدَائِدِ تَذْهَبُ الْأَحْقَادُ

مصیبت کے وقت دشمنان زائل ہو جاتی ہیں۔

عِنْدَ الشَّدَائِدِ تُعْرَفُ الْإِخْوَانُ

تختیوں کے وقت بھائی پہچانے جاتے ہیں۔

شَرُّ أَيَّامِ الدِّيَكِ يَوْمٌ تُغْسَلُ رِجْلَاكَ

مرغ کے لئے بدترین دن وہ ہے جو بعد میں یاد آئے۔

شَرُّ الرِّوَايِ الدَّبْرِيُّ

بدترین رائے وہ ہے جو بعد میں یاد آئے۔

شَرُّ الشَّدَائِدِ مَا يُضْحِكُ

بدترین سختی وہ ہے جو ہانسنے والی ہو۔ حیرتاک جو مصیبت زدہ یا

دشمنوں کو ہسائے۔

إِنَّ الشَّرَّاءَ قَدْ مِنْ أَدْبِهِمْ

تسراہنی کمال سے ہی کاٹا گیا۔

شَرُّ مِنَ الشَّرِّ فَاعِلُهُ

سو برائیوں کی ایک برائی برائی کرنے والا ہے۔

مَنْ اشْتَرَى الْخَمْدَ لَمْ يَنْعِنُ

جس نے تعریف خریدی اس کو خسارہ نہیں رہا۔

شَرُّ مِنَ الْمَوْتِ مَا يُصْنِي مَعَهُ الْمَوْتُ

موت سے بری وہ مصیبت ہے جس کے ہوتے ہی موت کی تمنا کی

مَنْ يَشْتَرِي سَيْفِي وَهَذَا الثَّوْرَةَ

میری تلوار کو نہ خریدتا ہے اور یہ اس کا اثر ہے۔

جائے۔

أَلَا مَنْ يَشْتَرِي سَهْرًا بِنَوْمٍ

کیا کوئی خریدار ہے جو نیند کے بدلے بیداری کو خرید لے۔ نعت و

شَرُّ النَّاسِ مَنْ لَيْقِيهِ النَّاسُ

بدترین آدمی وہ ہے جس سے لوگ پرہیز کریں۔

عاقبت کی ناشکری کے موقع پر کہا جاتا ہے۔

شَرُّ النَّاسِ مَنْ ذَارَهُ النَّاسُ بِشَرِّهِ

بدترین آدمی وہ ہے جس کی ڈر کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے

إِشْتَرِ بِنَفْسِكَ وَاللِّشْوَقِ

اپنے اور بازار کے لئے خریدو۔

ہوں۔

الشَّيْءُ يُؤْكَلُ وَيُذَمُّ

جو کھایا جاتا ہے پھر اس کی مذمت بھی کی جاتی ہے۔

شَرُّ النَّاسِ مَنْ لَا يَبَالِي أَنْ يَرَاهُ النَّاسُ فَمِثْلَنَا

بدترین آدمی وہ ہے جو اس کی پرواہ نہ کرے کہ لوگ اس کو ہدی

شُعَاعُ الشَّمْسِ لَا يَخْفَى وَنُورُ الْحَقِّ لَا يُطْفِئُ

آفتاب کی شعاعیں کو چھپایا نہیں جاسکتا اور حق کے نور کو بجھایا نہیں جا

کرتے دیکھیں گے۔

الشَّرَّاءُ خَيْبٌ مَا أَوْعَيْتَ مِنْ زَادٍ

برائی وہ سب سے زیادہ برا تو ہے جس کا تم نے ذخیرہ کیا ہے۔

إِنْ يَكُنْ الشُّغْلُ جُهْدَةً فَإِنَّ الْفُرَاعَ مَفْسُودَةً

شغل اگر مشقت میں ڈالے تو بیکاری باعث فساد ہے۔

الشَّرُّ قَلِيلُهُ كَثِيرٌ

برائی تو تھوڑی بھی بہت ہے۔

إِنَّ الشَّقِيْقَ بِسُوءِ الظَّنِّ مَوْلَعٌ

یقیناً مہربان برے گمانوں کا حربی بھی ہوتا ہے یعنی محبت کی زیادتی

إِنَّ فِي الشَّرِّ خِيَارًا

شر میں کچھ خیر بھی ہوتی ہے۔

يَدُ الْغَمِّ كَالسَّبَبِ هَوْتِي هِيَ

شَقِيْقَتِي نَفْسِي وَجَدَعْتُ نَفْسِي

میں نے اپنے نفس کو شفا دی مگر اپنی ناک کاٹ لی۔ یعنی ایک مراد

إِكْلَالُ شَرِّ نَاعَتٍ

ہر شر کا کوئی اٹھانے والا ہے۔

مِثْلُ الشَّقِيْقِ كَالشَّقِيْقِ

پائی تو دوسرا نقصان کر لیا۔

لَا تَشْرَبُ الْبِسْمَ إِكْلَالًا عَلَى الشَّرِّيَاتِي

ترباق پر بھروسہ کر کے ظاہر نہ ہو۔

شَقَا فَلَإِنْ غَضَا قَوْمَهُ

فلاں نے اپنی قوم کے اتحاد کو پارہ پارہ کر دیا۔

أَشْرَبُ مِنَ الْهَيْمِ

پیا سے اونٹوں سے بھی زیادہ پینے والا۔

مَا يُشَقُّ غَبَاؤُهُ

اس کا غبار چیر نہیں جاسکتا۔

أَشْرَبُ مِنَ الرُّمْلِ

ریٹ سے زیادہ پینے والا۔

شَقِيقَةُ هَذَرْتِ نَمَّ قَرَوْتِ

اونٹ کے منہ کا لٹھرا ہے کہ پہلے آواز نکالی پھر ساکن ہو گیا۔

أَشْرَبُ مِنَ الْقَمْعِ

قیف سے زیادہ پینے والا۔

إِنَّ الشَّقِيْقَ تَرَى لَهُ أَغْلَاكُمَا

بد بخت کی تم تمام علامتیں دیکھ لو گے۔ یعنی بد بختی کی تمام علامات

أَشْرَطُ أَمَلِكُ عَلَيْكَ أَمْ لَكَ

شرط زیادہ لازم ہے خواہ تیرے مخالف ہو یا موافق۔

إِنَّ الشَّقِيْقَ وَفَدَّ الرَّاجِمِ

چھپ نہیں سکتیں۔

شَرُّ عَمَلِكُ مَا بَلَّغَكَ الْمَحَلَّ

تیری زاوراہ ہے جو تجھے مقام تک پہنچا دے۔

بد بخت براجم کا آنے والا بے شک بد بخت ہے لالچ میں نقصان اٹھانے والے کے لئے کہا جاتا ہے۔

أَشْهَرُ مِنْ فَلَقِ الصُّبْحِ
ظہور صبح سے زیادہ مشہور۔

لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ

وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں جو لوگوں کا شکر نہیں کرتا۔

أَشْهَرُ مِنْ عِلْمِ

پہاڑ یا جھنڈے سے زیادہ مشہور۔

أَشْكُرُ مَنْ بَرَّوَقَهُ

برقہ سے زیادہ شکر گزار۔

أَشْهَرُ مِنْ نَارِ عَلِيٍّ عِلْمِ

پہاڑ پر آگ سے زیادہ مشہور۔

تَشْكُرُوهُ إِلَى غَيْرِ مُصِيبٍ

اس سے شکایت کر رہا ہے جو خاموش نہیں رہتا۔ یا خاموش نہیں کرتا۔

أَشْهَرُ مِنَ الْإِبْلِيقِ

ایبلیق سے زیادہ مشہور۔

الْشَّمَانَةُ لَوْمٍ

دوسرے کی مصیبت پر خوش ہونا کمینہ پن ہے۔

أَتَشْتَهِي وَتَشْتَكِي

کیا تو چاہتا ہے اور شکایت بھی کرتا ہے۔

لِكُلِّ ضَمْسٍ مَغْرِبٍ

ہر سورج کو ڈوبنا ہے۔

مِنْ شَهْوَةِ الضَّمْرِ بِمَضِ النَّوَى

کججور کی خواہش کے سبب کھٹھلی کو چوستا ہے۔

مَالِي بِضَمْسٍ لَا تَذِيئِي

میرے سورج کو کیا ہوا کہ مجھے گرم نہیں کرتا۔

ضَبُّ شَوْبًا لَكَ بَعْضُهُ

وہ بناؤ جس کا کچھ حصہ تمہارے لئے ہو۔

هُوَ عِنْدِي بِالْإِسْمَالِ

وہ میرے ہاتھ میں ہے۔ میرا ہاتھ ہے کم رتبہ ہے۔

شَابٌ يَشُوبُ شَوْبًا

بمعنی مرکب کرنا۔ ملانا۔

زَبٌّ شَائِنَةٌ أَحْقَى مِنْ أَمٍ

بہت سی دشمن عورتیں ماں سے زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔

إِنْ شَاوَزْتَ الْعَاقِلَ حَاوَزْتَ عَقْلَهُ لَكَ

جب تو نے عقلمند سے مشورہ کیا تو اس کی عقل تمہاری ہو گئی۔

شَوْفُ النَّهْاسِ يُظْهِرُ النَّحْاسَا

تانے کو صاف کرنا تانے کو اچھی طرح ظاہر کر دیتا ہے۔

شَيْئَةٌ أَعْرَفُهَا مِنْ أَخْزَمٍ

وہ خصلت ہے جو مجھے اخزم سے معلوم ہے۔

مِنْ الشُّوْكَةِ تَخْرُجُ الزُّورْدَةُ

کانٹے ہی سے گلاب کا پھول نکلتا ہے۔

شَاهِدُ لِنَفْسِكَ ذَنْبُهُ

لوٹری کا گواہ اس کی دم ہے۔

أَلْشَاةُ مَذْبُوحَةٌ لَا يُؤَلِّمُهَا السَّلْخُ

ذبح شدہ بکری کی کمال اتارنے سے اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔

شَاهِدُ الْبُغْضِ الْبُغْضُ

بغض کا گواہ غضبناک نظر ہے۔

كُلُّ شَاةٍ تَنَاطَأُ بِرِجْلِهَا

ہر بکری کو اس کے پاؤں کے بل ہی لٹکایا جاتا ہے۔ یعنی ہر شخص اپنے

شَهَادَاتِ الْعَمَالِ خَيْرٌ مِنْ شَهَادَاتِ الرِّجَالِ

کاموں کی شہادت لوگوں کی شہادت سے بہتر ہے۔

هِيَ جَرَمٌ كِي سَازِپَا تَا هِي

لا يَكُونُ ذَلِكَ حَتَّى يَتَّيَّبَ الْعَرَابُ

یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوآ سفید نہ ہو جائے۔ جب تک ناممکن ممکن

أَشْهَرُ مِنَ الشَّمْسِ

سورج سے زیادہ مشہور۔

أَشْهَرُ مِنَ الْقَمَرِ

چاند سے زیادہ مشہور۔

أَشْهَرُ مِنَ الْبَلْبَرِ

کال چاند سے زیادہ مشہور۔

كُلُّ ضَيْءٍ وَتَمَنُّهُ

ہر چیز کی ایک قیمت ہے۔

أَشْهَرُ مِنَ الصُّبْحِ

صبح سے زیادہ مشہور۔

بَيَاتٌ يَشِيءُ الْفَرَّاحُ

خالص پانی کو ہی بھونتا رہا۔

شَيْبِكَ نَاعِيكَ

تیرے بالوں کی سفیدی تیری موت کا منجر ہے۔

ص

صَبَابِي تُرْوِي وَ لَيْسَتْ غِيَلًا

میرا تلچھت سیراب کر دیتا ہے اتنا نہیں کہ زمین پر ہے۔

عِنْدَ الصَّبَاحِ يُحْمَدُ الْقَوْمَ السَّرِي

صبح کے وقت قوم رات میں چلنے کی تعریف کرے گی۔ اس شخص کے لئے کہتے ہیں جو راحت کی امید میں مشقت برداشت کرے یا

مشقت کے بعد راحت حاصل ہو۔

مَنْ صَبَرَ ظَفَرَ

جس نے صبر کا یوہ کامیاب ہوا۔

الصَّبْرُ حِيلَةٌ مِّنْ لَا حِيلَةَ لَهُ

صبر اس کا حیلہ ہے جس کا کوئی حیلہ نہ ہو۔

الصَّبْرُ مِفْتَاحُ الْفَرَجِ

صبر کشادگی کی کنجی ہے۔

أَصْبَرَ مِنَ الْوَتَدِ

تخت سے زیادہ صابر۔

أَصْبَرَ مِنَ الْأَرْضِ

زمین سے زیادہ صابر۔

الصَّبِي أَعْلَمُ بِمَضْخِ فِيهِ

بچہ اپنے منہ چبانے کو خوب جانتا ہے۔ جب کسی واقف کار کو مشورہ

دیا جائے اور وہ بھی غلط۔

وَرُبَّمَا صَحِبَ الْأَجْسَامَ بِالْعِلَلِ

کبھی جسم بیمار یوں کے سبب سے تندرست بھی ہو جاتے ہیں۔

صَاحِبُ الْحَاجَةِ أَعْنَى

ضرورت مند اندھا ہوتا ہے۔

وَصَاحِبُ الْبَيْتِ أَدْرَى بِالذِّی فِيهِ

مکان والا زیادہ بہتر جانتا ہے جو کچھ مکان میں ہے۔

صَحِيفَةُ الْمُتَلَمِّسِ

متلمس کا خط: خود فریبی میں جھٹلا ہو کر ہلاک ہونے والا۔

تُضَدُّ الْقُلُوبُ كَمَا يُضَدُّ الْحَدِيدُ

دل بھی اسی طرح زنگ آلود ہوتے ہیں جس طرح لوہا زنگ

آلود ہوتا ہے۔

صَدْرُكَ أَوْ سَعُ لَيْسَ رِكَ

تیرا ہی سینہ تیرے راز کے لئے زیادہ ہے۔

صُدُورُ الْأَحْوَارِ قُبُورُ الْأَسْرَارِ

شریفوں کے سینے رازوں کی قبر ہوتے ہیں۔

صَادَفَ ذُرَّ السَّيْلِ ذُرًّا يَصُدُّعُهُ

سیلاب کی ٹکرائی ٹکڑے ہوئی جو سیلاب کی ٹکڑے کو توڑ دے گی۔

مَنْ صَدَّقَ اللَّهَ نَجَا

جو اللہ کے ساتھ سچا رہا اس نے نجات پائی۔

أَلْصَدِّقُ يُنْسِي عُنْكَ لَا الْوَعِيدُ

عمل کی سچائی تمہاری خبر دے گی نہ دھمکی۔

أَصْدَقُ مِنْ لَفْظِ لُحْظٍ

بات سے زیادہ سچی نگاہ ہے۔

أَصْدَقُ مِنَ الْقَطَا

قطا سے زیادہ سچا۔ قطا (بھٹ تیر) جو قطا قطا پکار کر اپنی چچی خبر دے

دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اپنی آواز بھی کبھی نہیں بدلتا۔

صَرَحَ الْمَحْضُ عَنِ الزُّبَيْدِ

خالص چیز جھاگ سے الگ ہو گئی ہے۔ صرح لازم اور متحدی

دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔

عِنْدَ التَّصْرِیحِ تَوْبِیحٌ

رات کھلنے کے وقت تو راحت پائے گا۔

أَلْصَرِيخُ تَحْتَ الرُّغْوَةِ

صاف چیز جھاگ کے نیچے ہے۔

مَنْ ضَاوَعَ الْحَقَّ صَرَغُهُ

جو حق سے گشتی کرے گا حق اس کو پچھاڑ دے گا۔

لِكُلِّ صَارِمٍ بُنُوةٌ لِكُلِّ جَوَارٍ كِتَابَةٌ لِكُلِّ عَالِمٍ هَفْوَةٌ

ہر تلوار کبھی اچٹ جاتی ہے ہر گھوڑا کبھی ٹھوکر کھاتا ہے اور ہر عالم سے

کبھی لغزش ہوتی ہے۔

أَضْعَبُ مِنَ رِذَّةِ الشَّخْبِ فِي الْفَرْعِ

دودھ کی دھار کو تھمن میں لوٹا دینے سے زیادہ مشکل۔

كَصَفِيحَةِ النَّسَنِ تَشْحَدُ وَلَا تَقْطَعُ

سان کے پتھر کی طرح ہے دھار کو تیز کرتا ہے اور خود نہیں کاٹتا۔

دوسروں کو نصیحت کرتا ہے مگر اپنا کام درست نہیں کر سکتا۔

صَفْفَةٌ لَمْ يَشْهَدْهَا خَاطِبٌ

ایسا سودا ہے جس میں حاطب موجود نہیں تھا۔

أَصْفَى مِنَ الذَّمَّةِ

آنسو سے زیادہ صاف۔

أَصْفَى مِنْ غَيْنِ الدِّيَكِ

مرغ کی آنکھ سے زیادہ صاف۔

أَصْفَى مِنْ جَنَى النُّحْلِ

شہد سے زیادہ خالص۔

أَصْلَحَ غَيْثٌ مَا أَفْسَدَ الْبُرْدُ

بارش نے درست کر دیا جس کو سردی نے خراب کر دیا تھا۔ جب کوئی شخص کسی کا بگاڑا ہوا کام درست کر دے تو کہا جاتا ہے۔

وَهَلْ يُصْلِحُ الْعَطَّارُ مَا أَفْسَدَ الدُّفْرُ

کیا عطار اس کی اصلاح کر لے گا جس کو زمانے نے فاسد کر دیا ہے؟

لَا يُصْلِحُ زَلْفًا مَنْ لَمْ يَبْلَعْ دَيْفًا

وہ شخص زلف بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا جو غصے کا تھوک نہ نگلے۔ غصہ نہ پی جائے۔

مَا لَا يُصْلِحُ نَزَكُهُ إِخْلَعُ

جو درست نہ ہو سکے اس کو چھوڑ دے۔

أَصْلِحْ نَفْسَكَ يُصْلِحْ لَكَ النَّاسَ

اپنے آپ کو درست کرے تمہارے لئے لوگ درست ہو جائیں۔

رُبُّ صُلْفٍ تَحْتَ الرُّغْدَةِ

گر بننے والے ابر کے نیچے بسا اوقات خالی بادل بھی ہوتے ہیں۔

أَصَمَّ عَمَّا سَاءَ هُ سَجِيعٌ

ستتا ہے مگر ان باتوں سے بہرا ہے جو اس کو بری معلوم ہوں۔ بہرا اپنے مطلب کی سن لیتا ہے یا بری باتوں کو ایسے ٹال دیتا ہے جیسے سنا ہی نہیں۔

صَنْصَانُهُ عَمْرُو بْنُ مَعْدِيكَرِبٍ

عمرو بن معدیکرب کی تلوار۔ عمرو بن معدیکرب کی تلوار کاٹ میں ضرب المثل تھی۔

إِضْنَعُهُ صَنْعَةٌ مِنْ طَبِّ لَيْمَنْ حَبِّ

اس کو ایسے بنا جیسے ایک تجربہ کار آدمی اپنے محبوب کے لئے بناتا ہے۔ انتہائی نفاست ہے۔

أَضْنَعُ مِنَ النُّحْلِ

شہد کی مکھی سے زیادہ کاریگر۔

أَضْنَعُ مِنَ ذُوِّ الدَّقِيزِ

ریشم کے کیڑے سے زیادہ کاریگر۔

أَصَابَ تَمْرَةَ الْغُرَابِ

کوئے کو بہترین چیز مل گئی۔

مَصَانِبُ قَوْمٍ عِنْدَ قَوْمٍ لَوْ أَيْدٍ

ایک قوم کے مصائب دوسری کے فوائد ہوتے ہیں۔

لَيْسَ بِصَيَّاحِ الْغُرَبِ يُحْيِي الْمَطَرُ

کوئے کے پکارے بارش نہیں آ سکتی۔

هَذَا يَصِيدُ وَهَذَا يَأْكُلُ السَّمَكِ

یہ شکار کرتا ہے اور یہ مچھلی کھاتا ہے۔

صَيْدُكَ لَا تُخْرِمُهُ

اپنا شکار کرے اس سے محروم نہ رہا۔

يَا صَيْدُكَ إِنَّ لَمْ تَحْرَمِهِ

وہ تیرا شکار ہے اگر تو اس کو محروم نہ کرے۔

كُلُّ الضَّيْدِ فِي جَوْفِ الْفَرَّاءِ

تمام شکار گورخر کے پیٹ میں ہیں۔

فِي الصَّيْفِ ضَيْتُ اللَّيْنِ

تو نے دودھ کو گرمیوں ہی میں ضائع کر دیا۔

ضن

الضُّجُو تَحْلِبُ الْعَلْبَةَ

تنگ آئی ہوئی اونٹنی دودھ کا برتن بھردیتی ہے۔

إِضْطَرُّهُ السَّيْلُ إِلَى الْعَطَشِ

سیلاب نے اس کو پیاس کے لئے مجبور کر دیا۔ خوشحالی اور وسعت نے خشکی اور مفلسی میں مبتلا کر دیا۔

لَا يُضْرِبُ الشَّحَابُ تَبْعَ الْكَلَابِ

کتوں کا بھونکنا بادلوں کو ضرر نہیں پہنچاتا۔

الضُّرُورَاتُ تَبِيعُ الْمُعْطُورَاتِ

ضرورتیں ممنوع چیزوں کو ضائع کر دیتی ہیں۔

ضَرَبَ أَحْمَسًا لِأَسْدَاسِ

اس نے پانچویں دن کی باری والے اونٹ کو چھٹے دن والے کی باری بنا دیا۔

إِذَا ضَرَبْتَ فَأَوْجِعْ وَإِذَا زَجَرْتَ فَاسْمِعْ

دار کرے تو بھر پورا اور ججز کے تو اچھی طرح سنا دے۔

نیزے کے سائے سے زیادہ تنگ۔

ط

تَطَأُطَاءَ لَهَا تَغْنِيكَ

مصیبت کے سامنے سر جھکا لوتا کہ تم نشانہ خطا کر کے گزر جاؤ۔ برائی سے مت الجھو۔

طَبِيبٌ يُدَاوِي النَّاسَ وَهُوَ مَرِيضٌ

وہ طبیب ہے جو لوگوں کا علاج کرتا ہے اور خود مریض ہے۔

يَا طَبِيبُ طَبِّ نَفْسِكَ

طبیب اپنا علاج کروائیں۔

الطَّيِّعُ أَغْلَبُ

طبیعت زیادہ غالب ہوتی ہے۔

طَرَفُ الْفَتَى يُخْبِرُ عَنْ جَنَانِهِ أَوْ عَنْ خَمِيرِهِ

جو ان کی نگاہ اس کے دل کی خبر دیتی ہے یا اس کے ضمیر کی۔

رُبُّ طَرَفٍ أَفْضَحُ مِنْ لِسَانٍ

بہت سی نگاہیں زبان سے زیادہ فصیح ہوتی ہیں۔

الطَّرِيفُ خَفِيفٌ وَالتَّلِيدُ بَلِيدٌ

نئی چیز سبک اور لطیف ہوتی اور پرانی چیز ٹھس۔

أَطْرَفُ كَرَامَةٍ التَّعَامَةُ فِي الْقُرَى

(نظر جھکائے) گاؤں میں شتر مرغ موجود ہے۔ یعنی ذلیل بڑوں

کے سامنے بڑی باتیں کرتا ہے۔

لَا تَطْعِمُ الْعَبْدَ الْكُرْعَ قَيْطَمَعَ بِالذَّرَاعِ

غلام کو پا کھرت کھاؤ ورنہ وہ دست کی طرح کرے گا۔

أَطْفَى مِنْ لَسِيلٍ

سیلاب سے زیادہ سرکش۔

مَنْ طَالَبَ الْعُلَى مِنْ غَيْرِ مَكْدٍ سَيَلِدُ كُنْهَا إِذَا شَبَابَ الْغُرَابِ

جو بغیر مشقت اعلیٰ درجات طلب کرتا ہے وہ انہیں اس وقت حاصل

کرتا ہے جب کو اسفید ہو جائے گا۔

مَنْ طَلَبَ أَخَا بِلَاعِيْبٍ بَقِيَ بِلَاخِ

جو بے عیب بھائی تلاش کرے گا وہ بغیر بھائی کے ہی رہے گا۔

مَنْ طَلَبَ عَظِيمًا خَاطِرَ بَعْظِيمٍ

جو کوئی بڑی ہم تلاش کرے گا وہ بغیر بھائی کے ہی رہے گا۔

مَنْ طَلَبَ سَيِّئًا لَهُ كَلْمَةٌ أَوْ بَعْضَةٌ

جو کسی چیز کو طلب کرے گا وہ اس کے کل یا جز کو حاصل کرے گا۔

اِنَّكَ تَضْرِبُ فِى جَدِيدٍ بَارِدٍ

تو ٹھنڈا لوہا پیٹ رہا ہے۔ بے نتیجہ کوشش کر رہا ہے۔

اِيَّاكَ اَنْ يَضْرِبَ لِسَانَكَ عَفْكَ

اس بات سے بچو کہ تمہاری زبان تمہاری گروں مار دے۔

ضَرْبُ الْعَجِيبِ اَوْ جَعٍ

وہ گھڑی پر ایک اور گھڑی ہے۔ یعنی بوجھ پر بوجھ۔ مصیبت پر

مصیبت۔

اِنَّهَا لَضِعْفٌ عَلٰى اَثَابَةٍ

وہ گھڑی پر ایک اور گھڑی ہے۔

لَقَدْ ضَلَّ مَنْ كَانَتِ الْعِمْيَانُ تَهْدِيْتُهُ

وہ کھویا گیا جس کی رہنمائی اندھے کرتے ہیں۔

اَضَلُّ مِنْ ضَبِّ

گاوہ سے زیادہ گمراہ۔

اِنَّمَا يَضُنُّ بِالضَّنِينِ

بجیل کے ساتھ بجل کیا جاتا ہے۔ سخی کے ساتھ نہیں یا نہیں چیز کے

لئے بجل کیا جاتا ہے۔ ضنین: وہ چیز جس کی نفاست کی وجہ سے اس

کے دینے میں بجل کیا جائے۔

اَضَى لِيْ اَفْدَخُ لَكَ

تو میرے لئے روشن کر میں تیرے لئے چھتاق سے آگ نکالوں

گا۔

لَا يَضِيعُ حَقٌّ وَّرَاءَ هُوَ طَالِبٌ

وہ حق ضائع نہیں ہوگا جس کے پیچھے طلبگار موجود ہو۔

لَمْ يَضِعْ مِنْ مَالِكَ وَمَا وَغَطَكَ

تیرے مال میں وہ حصہ ضائع نہیں جس نے تیری خیر خواہی کی۔

اَضِيعُ مِنْ سِرَاجِ فِى شَمْسٍ

دھوپ میں چراغ سے زیادہ ضائع۔

اَضِيعُ مِنْ غَمْدٍ بِلَاتَصِلُ

بغیر تلوار سے میان سے زیادہ بیکار۔

اَضِيعُ مِنْ قَمَرِ الشَّاءِ

جاڑوں کی چاندنی سے زیادہ بیکار۔ غریب کی جوانی اور جاڑوں کی

چاندنی ضائع ہو جاتی ہے۔

اِذَا ضَالِكُمْ مَكْرُوهُ فَافْقِهِ صِرًا

جب مصیبت مہمان ہو تو صبر سے اس کی ضیافت کرو۔

اَضِيقُ مِنْ ظِلِّ الرَّمَحِ

تَطْلُبُ أَثْرَ بَعْدَ عَيْنٍ

تو اصل کے بعد نشان ڈھونڈ رہا ہے۔

لَا أَطْلُبُ أَثْرَ بَعْدَ عَيْنٍ

میں اصل کے بعد اثر کو طلب نہیں کرتا۔ میں اصل کو چھوڑ کر نقل کے پیچھے نہیں پڑتا۔

كُلُّهُمْ طَالِبٌ صَيْدٍ

سب ایک ہی شکار کے طالب ہیں۔ ”یک انار صد پیار“۔

زَبَّ طَلَبٌ جَرَّ إِلَى حَرْبٍ

بہت سی طلب لڑائی تک پہنچا دیتی ہے۔

إِذَا طَلَعَ سُهَيْلٌ رُفِعَ كَحَيْلٍ وَوُضِعَ لَيْلٌ

جب سہیل طلوع ہوگا تو ایک جیاناٹھ جائے گا دوسرا رکھا جائے گا۔

إِذَا طَلَعَ الْقَمَرُ طَلَبَ الشُّهُرُ

جب چاند نکلے گا تو بیداری خوش حالی ہو جائے گی۔

أَطْمَعُ مِنَ الشَّعْبِ أَشْعَبُ

اشعب سے زیادہ حریص۔

أَطْمَعُ مِنَ طَفِيلٍ

طفیل سے زیادہ حریص۔ طفیل کو فد کا مشہور حریص تھا۔ جو بغیر بلائے دعوتوں میں پہنچ جاتا تھا۔ اسی نسبت سے طامع اور لالچ کو طفیلی کہتے ہیں۔

مَنْ أَطَاعَ هَوَاهُ بَاعَ دِينَهُ بِدُنْيَاهُ

جس نے اپنی خواہش کی اطاعت کی اس نے اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ دیا۔

مَنْ أَطَاعَ غَضَبَهُ أَصَاعَ آذَانَهُ

جس نے اپنے غصہ کی اطاعت کی اس نے اپنا ادب ضائع کر دیا۔

بَيْنَ الْمِطْطِيعِ وَبَيْنَ الْمَذْبُورِ الْقَاعِصِي

فرمان بردار اور اوندھے نافرمان کے درمیان کر دیا۔

مَنْ يُطْعِدُ ذَيْلَهُ يَسْتَطِقُ بِهِ

جس کا دامن دراز ہوتا ہے وہ اس کا پٹکا باندھتا ہے۔

أَطُولُ مِنَ ظِلِّ الرُّمُحِ

نیزہ کے سایہ سے زیادہ لمبا۔

أَطُولُ مِنَ شَهْرِ الصُّومِ

روزے کے مہینے سے زیادہ لمبا۔

أَطُولُ ضِحَّةً مِنَ الْفِرْقَدَيْنِ

فرقدین سے بھی زیادہ طویل صحبت۔ فرقدین دو ستاروں کا نام جو

ہمیشہ یکجا رہتے ہیں۔

مَا عِنْدَهُ طَائِلٌ وَلَا نَائِلٌ

نہ اس کے پاس علم و فضل ہے یہ عطیہ۔ طول بمعنی فضل اور نوال بمعنی عطیہ۔

طَوَيْفَةُ عَلِيٍّ بَلَائِيهِ أَوْ عَلِيٍّ بَلَائِهِ

میں نے اس کو اس کی ٹہنی پر بھی لپیٹ دیا۔

إِكْحَلُ طَيْبِي نُشْرُ

بریت کبھی کھلتا ہے۔

أَطْيَبُ مِنَ نَفْسِ الرَّبِيعِ

موسم بہار کی ہوا سے زیادہ خوشگوار۔

أَطْيَبُ مِنَ الْحَيَاةِ

زندگی سے زیادہ خوشگوار۔

طَارَتْ بِهِمُ الْعَنْقَاءُ

ان کو عتقا (فرضی پرندہ) اڑا لے گیا۔ ایسے لوگوں کے لئے بولتے ہیں جو تمام ہلاک ہو جائیں اور کوئی نہ بچے۔

الطَّيْرُ بِالطَّيْرِ يُضَادُّ

ایک پرندہ دوسرے پرندہ کے ذریعہ شکار کیا جاتا ہے۔

إِنَّ الطَّيْرَ عَلَيَّ أَشْكَالَهَا تَعِ

پرندے اپنے ہم شکلوں پر پڑتے ہیں۔

أَطْيَشٌ مِنَ قَرَأَشَةٍ

پروانہ سے زیادہ پیش میں آنے والا۔

يُطَلِّقُ عَيْنَ الشَّمْسِ

چشمہ آفتاب پر مٹی ڈالتا ہے۔

ظ

ظَنْزَرُ دُوومِ خَيْرٍ مِنْ أَمِّ مَسْنُوومِ

مہربان دایہ طول ماں سے بہتر ہے۔

مَنْ الظَّرْفِ جُودُ الْمُهْدِي بِالظَّرْفِ

تختہ دینے والے کی طرف سے برتن کی بھی سخاوت دانائی کی باقی

ہے۔ الظرف: اول یعنی دانائی اور الظرف: دوم بمعنی برتن۔

الظَّفَرُ بِالضَّعِيفِ هَزِيمَةٌ

کمزور پر فٹ پانا ٹکست ہے۔ کمزور کے مقابلہ میں جیت بھی اپنی بار

ظَلُّ السُّلْطَانِ سَرِيحُ الزَّوَالِ

بادشاہ کا سایہ صریحاً اڑواں ہوتا ہے۔

ظلالٌ ضیفٌ مألها فطارٌ

گرمی کے بادل میں قطار پیش۔

ظلم مرء یضرمه

آدمی کا ظلم ہی اس کو پچھاڑ دیتا ہے۔

الظلم مرمعه و حیم

ظلم کی چراگاہ ناقص ہے، ظلم کی عاقبت مذموم ہے۔

أظلم من حیة

سانپ سے زیادہ ظالم۔

أظلم من أفضی

سیاہ سانپ سے زیادہ ظالم۔

أظلم من لیل

رات سے زیادہ سیاہ۔

أظماء من زمل

ریت سے زیادہ پیاسا۔

یصبح ظمان و فی البحر قمه

صبح ہوتی ہے تو پیاسا ہوتا حالانکہ منہ سمندر میں ہے۔

ظن العاقل خیر من یقین الجاہل

متفکر کا گمان جاہل کے یقین سے بہتر ہے۔

ما ظنک بجارک قال ظنی بنفسی

تیرا گمان اپنے پرہیزی کے متعلق کیا ہے کہا وہ گمان جو اپنی ذات کے

متعلق ہے۔ آدمی اپنے اوپر ہی قیاس کرتا ہے۔

أكثر الظنون مینون

اکثر گمان فریب ہوتے ہیں۔

عن ظہر ہاتج و قرا

اپنی ہی کمر کا بوجھ کھوج رہی ہے۔

ظاهر العتاب خیر من باطن الحقد

ظاہری عتاب بالٹنی کینہ سے بہتر ہے۔

ویقی الود ما بقی العتاب

محبت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک عتاب باقی ہے۔

ع

عَبْدٌ وَ نِسْوَةٌ

غلام اور بے مہار۔ یعنی کمینہ اور بے لگام۔

عَبْدٌ غَيْرُكَ حُرٌّ مِثْلُكَ

غیر کا غلام تمہاری طرح آزاد ہے۔ اس شخص کے لئے کہا جاتا ہے جو

بے ہنر ہوتے ہوئے خود کو دوسروں پر فوقیت دے۔

العَبْدُ يُفْرِعُ بِالْعَصَا وَالْحُرُّ تَكْفِيهِ الْإِشَارَةُ

غلام کو ڈنڈے سے کھٹکایا جاتا ہے آزاد کو اشارہ کر دیا جاتا ہے۔

العَبْدُ مَنْ لَا عَبْدَ لَهُ

غلام وہ بھی ہے جس کا کوئی غلام نہ ہو۔

فِي الْإِعْتِبَارِ غَنَى عَنِ الْإِعْتِجَارِ

عبرت حاصل کرنے میں امتحان سے بے نیازی ہے۔

التَّجْمِيرُ نِصْفُ التَّجَارَةِ

پرکھنا آدمی تجارت ہے۔

مَنْ عَبَّ عَلَى الذَّهْرِ ظَالِمٌ مُغْتَبَةٌ

جس نے زمانہ پر عتاب کیا اس کا عتاب طویل ہو گیا۔

الْعِتَابُ خَيْرٌ مِنْ مَكْتُومِ الْحَقِّدِ

عتاب چھپے ہوئے کینہ سے بہتر ہے۔

الْعِتَابُ قَيْدُ الْعِقَابِ

سنہرا سے پہلے عتاب کرو۔

لَا عِتَابَ بَعْدَ الْمَوْتِ

موت کے بعد کوئی عتاب نہیں۔

مُعَاتَبَةُ الْأَخْوَانِ خَيْرٌ مِنْ فَقْدِهِمْ

بھائیوں کی ناراضگی ان کے نما ہونے سے بہتر ہے۔

وَفِي الْعِتَابِ حَيَاةٌ بَيْنَ أَقْوَامٍ

عتاب میں قوموں کی زندگی ہے۔

رُبَّ عَيْتِي شَرٌّ مِنْ رِقِّ

بعضی آزادی غلامی سے بدتر ہے۔

عَشْرَةُ الْقَدِيمِ أَسْلَمُ مِنْ عَشْرَةِ اللِّسَانِ

قدم کی لغزش زبان کی لغزش سے زیادہ محفوظ ہے۔

مَا كُنْ عَشْرَةَ ثَقَالٍ وَلَا كُنْ لِحُرَّةِ تَنَالٍ

ہر لغزش واپس نہ لی جائے اور نہ موقع پھر ہاتھ آتا ہے۔

لَا يُعْجِزُ الْقَوْمَ إِذَا تَعَاوَنُوا

جب قوم میں باہم تعاون ہو تو وہ عاجز نہیں رہتی۔

العجز رية

عَبْدٌ وَجَلِيٌّ فِي يَدَيْهِ

غلام اور ہاتھوں میں زیور؟ کو سے کی چونچ میں انگور۔

عاجزی شک کی بنا پر ہے۔

العجلة فرصة العجزة

جلدی عاجزوں کی فرصت ہے۔ کام پر قابو ہو تو جلد بازی نہیں ہوتی۔

ليس من العدل سرعة العزل

جلدی ملامت کرنا انصاف کی بات نہیں۔ ممکن ہے عذر قابل قبول ہو۔

يُعَدَّلُ لِكُلِّ الشَّوْءِ كَلْبٌ يُعَادِلُهُ

برے کتے کے لئے اسی جیسا کتا تیار کرنا پڑتا ہے۔

أَعْدَلُ مِنَ الْمِيْزَانِ

ترازو سے زیادہ منصف۔

لَا تُعْذَمُ الْحَسَنَاتُ

کوئی حسینہ عیب سے خالی نہیں۔

لَا يُعْذَمُ الْخَوَارِجُ مِنْ أُمَّةٍ حَتَّىٰ

کوئی اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کی شفقت نہیں کھوتا۔

الْعَدِيمِ مِنْ اخْتِاجِ الْإِلَهِ لِنَيْمٍ

مفلس وہ ہے جو کینے کا محتاج ہو جائے۔

مَنْ تَعَدَّى الْحَقَّ صَنَاعَ مَذْهَبِهِ

جس نے حق سے تجاوز کیا اس کا راستہ جگمگ ہو گیا۔

أَعْدَى مِنَ السَّلِيكِ

سلیک سے زیادہ دوڑنے والا۔

أَعْدَى مِنَ الشَّفَرِيِّ

شفری سے زیادہ دوڑنے والا۔

أَعْدَى مِنَ الْعَقْرَبِ

بچھو سے زیادہ دشمن۔

أَعْدَى مِنَ الْجَرَبِ

کھجلی سے زیادہ متعدی۔

إِيَّاكَ وَمَا يُعْتَدِرُ مِنْهُ

اس چیز سے بچو جس سے معذرت طلب کی جائے۔ ایسا کام ہی نہ

کر دو جس سے معذرت کی ضرورت پیش آئے۔

وَالْعُذْرُ عِنْدَ كِرَامِ النَّاسِ مَقْبُولٌ

معذرت شریف لوگوں کے یہاں مقبول ہوتی ہے۔

لَعَالَهُ عَذْرَاوَانَتٌ تَلْوَمُ

شاید اس کو عذر ہو اور تو اس کو ملامت کر رہا ہو۔ مصرع اول یہ ہے۔

تَأْتِ وَلَا تَعَجَلْ بِلَوْمِكَ صَاحِبًا

اپنے دوست کو ملامت کرنے میں جلدی نہ کرو۔

أَعْذَرُ مَنْ أَنْذَرَ

اس نے عذر پیش کیا جس نے ڈرایا تھا۔

الْمَعَاذُ مَكَادِبُ

عذر اکثر جھوٹ ہوتے ہیں۔

رِجَالُهُ تَعْتَقِلُ الرِّمَاحَ

پیدل ہے جو نیزوں کو گھوڑے پر نصب کئے ہوئے ہے۔

عَرَضَ لِلْكَرِيمِ وَلَا تَبَاجُثَ

شریف سے اشارہ کنایہ سے کہو۔ صاف مت کہو۔

إِنَّ فِي الْمَعَارِضِ لَمَسْدُوحَةً عَنِ الْكُذْبِ

کنایوں میں جھوٹ سے بچنے کی گنجائش ہے۔

عَرَفَتِ الْخَيْلُ فُرْسَانَهَا

گھوڑوں نے اپنے سواروں کو پہچان لیا۔

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ

جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔

مَنْ عَرَفَ بَشِيئَتِي نَسِبَ إِلَيَّ

جو شخص کسی نسبت سے پہچانا گیا اسی کی طرف منسوب ہو گیا۔

لَا يَعْرِفُ الْحَيُّ مِنَ اللَّيِّ

حق کو باطل سے ممتاز نہیں کر سکتا۔

لَا يَعْرِفُ الْعُودُ كَالنَّاجِمِ

کسی چیز کو وہی جان سکتا ہے جو اچھی طرح جانچ کر دیکھے۔

مَا يَعْرِفُ قَبِيلًا مِنْ دَبِيرٍ

آنے والے کو جانے والے سے ممتاز نہیں کر سکتا۔

لَا يَعْرِفُ الْكُوعُ مِنَ الْبُوعِ

وہ ہاتھ کی ہڈی کو پاؤں کی ہڈی سے ممتاز نہیں کر سکتا۔

لَا يَعْرِفُ الْكَاعُ مِنَ الْبَاعِ

وہ کتے کی ہڈی اور پھیلے ہوئے ہاتھوں میں تمیز نہیں کر سکتا۔

لَا يَعْرِفُ الْبَهْرُ مِنَ الْبُرِّ

وہ بلی اور چوہے میں فرق نہیں کرتا۔

إِلَّا عِتْرَافَ يَهْدِمُ الْإِفْتِرَافَ

اعتراف کر لینا ارتکاب (جرم) کو ختم کر دیتا ہے۔

مِنْ عَزَّيْزٍ

جو غالب آیا اس نے چھین لیا۔

ہر گھاس میں چرنے کے آثار موجود ہیں۔ جہاں دولت ہو وہاں
مانگنے والے بہت۔

تَعَاشِرُؤْ كَمَا لِاِخْوَانٍ وَتَعَاْمَلُوْا كَمَا لِاِجْنَابٍ

بھائیوں کی طرح بسر کرو اور اجنبیوں کی طرح معاملہ کرو۔ حدیث
میں آتا ہے معاملہ کرتے وقت لوہے کی طرح سخت ہو جاؤ۔

ان العضا من العصية

لاٹھی چھڑی سے ہی بنتی ہے۔

بَيْنَ الْعِضَاءِ وَالْمَاهِيَا

لاٹھی اور اس کی چھال کے درمیان۔

رُبَّ عَطْفٍ تَحْتَ طَلَبٍ

طلب کے پیچھے بہت سی بربادیاں ہیں۔

لَا عَطْفَ بَعْدَ عَزْوُسٍ

عروس کے بعد کوئی عطر نہیں۔

بَيْنَهُمْ عَطْفٌ مَنْشِيمٌ

ان کے درمیان منہم کا عطر لگا ہوا ہے۔ تفصیل قبل ازیں گزر چکی۔

أَعْطَشَ مِنْ تَعَالَةٍ

لومڑی سے زیادہ پیاسا۔ جو سیراب ہی نہ ہو۔

أَعْطَشَ مِنْ رَمَلٍ

ریت سے زیادہ پیاسا۔

أَعْطَشَ مِنْ قَمْعٍ

قیف سے زیادہ پیاسا۔

أَعْطَاهُ غِيضًا مِنْ فَيْضٍ

اس کو زیادہ پانی میں سے تھوڑا دیا۔

أَعْطَى مَقُولًا وَغَيْدِمٌ مَغْفُولًا

اس کو گفتگو کی طاقت عطا ہوئی مگر معقولیت معدوم کر دی گئی۔

وَأِنَّمَا نَعْطِي الْبَدِيءَ أَعْطَيْنَا

جو ہمیں دیا گیا ہے وہی ہم دیتے ہیں۔

أَعْطَى أَخَاكَ تَصْرَةً فَإِنِ ابْنِي فَجَحْرَةٌ

اپنے بھائی کو کھجور دو انکار کرے تو انکار دو۔ بھلائی کام نہ دے تو

تختی کرو۔

أَعْطَى الْفَوْسَ بِأَدْيِهَا

کمان اس کے بنانے والے کو دو۔ یعنی کام بجز یہ کار کو دو۔

مَنْ عَظَّمَ صَفَارًا الْمَصَابِتِ ابْتِلَاءً بِكِبَارِهَا

چھوٹی مصیبتوں کو بڑا سمجھا اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے بڑا کر دیا۔

إِنْ عَزَّ أَخْوَكُ فَهَنْ

جب تیرا بھائی عزت پائے تو تو نرم ہو جا۔ وہ عزیز ہو کر بھی غرور نہیں
کرے گا ورنہ تعلق ختم ہو جائے گا۔

عِزُّ الرَّجُلِ اسْتِغْنَاءُ عَنِ النَّاسِ

آدمی کی عزت لوگ سے ہوشیار ہو جانا ہے۔

أَعَزُّ مِنَ كَلْبٍ وَاللَّ

وَأَمَلُ كَيْتٍ سَيَّادَةٌ مَعَزَزٌ

أَعَزُّ مِنَ الزَّيْبِ

زباہ سے زیادہ معزز۔ زباہ عمال قدر کی باشجاعت عورت تھی۔

أَعَزُّ مِنْ أَنْفِ الْأَسَدِ

شیر کی ناک سے زیادہ عزت والا۔

أَعَزُّ مِنْ جَبْهَةِ الْأَسَدِ

شیر کی پیشانی سے زیادہ عزت والا۔

أَعَزُّ مِنَ الْأَبْلَقِ الْجَوِّ

فضا کے عقاب سے زیادہ عزت والا۔

أَعَزُّ مِنَ الْأَبْلَقِ الْعَقُوقِ

ابلق حاملہ گھوڑے سے زیادہ نایاب۔

أَعَزُّ مِنْ بَيْضِ الْأَنْوَقِ

شکرہ کے انڈوں سے زیادہ نایاب۔

أَعَزُّ مِنَ الْغَرَابِ الْأَعْصَمِ

سرخ گندھک سے زیادہ نایاب۔

أَعَزُّ مِنَ الْكِبْرِيْتِ الْأَخْمَرِ

سرخ گندھک سے زیادہ نایاب۔

أَعَزُّ مِنْ عِنْقَاءِ مَغْرَبٍ

عنقا سے زیادہ نایاب۔

أَعَزُّ مِنْ مَخِ الْبُحُوضِ

پھجر کے مغز سے زیادہ نایاب۔

إِنْ بَعْدَ الْعَيْسِ يُسْرًا

تنگلی کے بعد تین فراسی ہے۔

لَيْسَ هَذَا بِعَشْكَ فَاذْرُجِي

یہ تیرا گھونسلہ نہیں چلی جا۔

أَغْشَيْتُ فَانزُولُ

تو گھاس پر پہنچ گیا ہے تو اتر پڑ۔

بِكُلِّ عَشْبٍ آثَارٌ رَعِي

الْعَفْوُ كُلُّ مَنْ لَمْ يَنْكُلْ

اولاد کی سرکشی ان لوگوں کے لئے اولاد کھودینے کے ہی برابر ہے جنہوں نے اولاد نہیں کھوئی۔

الْعَفْوَةُ الْآمُ حَالَاتِ الْقُدْرَةِ

سزا دینا قدرت کی حالتوں میں سب سے گھنیا درجہ ہے۔

يَا عَاقِدُ أَذْخِرْ خَلَا

اے گرہ لگانے والے کھولنے کا وقت بھی یاد رکھ۔

لِكُلِّ عَقْدٍ حَلٌّ

ہر گرہ کھلتی ہے۔

اغْفِدْ مِنْ ذَنْبِ الضَّبِّ

گواہ کی دم سے زیادہ گرہ دار۔ گواہ کی دم بہت سی گرہوں کے لئے مشہور ہے جیسے کتے کی دم کچی کے لئے۔

أَعْقِلْ لِسَانَكَ الْإِفْهِ أَرْبَعَةٌ

اپنی زبان کو روکو مگر چار موقعوں پر۔ ۱۔ حق کی حمایت۔ ۲۔ باطل کا استیصال۔ ۳۔ علم کے پھیلائے۔ ۴۔ اللہ عزوجل کے شکر میں۔

العقل وزير ناصح

عقل خیر خواہ وزیر ہے۔

عَقْلُ الْمَرْأَةِ فِي جَمَالِهَا وَجَمَالُ الْمَرْءِ فِي عَقْلِهِ

عورت کی عقل اس کی خوبصورتی میں ہے اور آدمی کی خوبصورتی اس کی عقل میں ہے۔

أَغْفِلِ النَّاسَ اغْفِرْ لَهُمُ لِلنَّاسِ

سب لوگوں میں زیادہ غفیرندہ ہے جو لوگوں کا عذر زیادہ قبول کرنے والا ہے۔

بِعَلَّةِ زُرْعٍ يُنْقَى الْقَرْعُ

کھیتی کی وجہ سے کدو کو بھی پانی پلا دیا جاتا ہے۔

بِعَلَّةِ الْوَرْشَانِ يَأْكُلُ رَطْبَ الْمَثَانِ

ورشان کے بہانہ سے بھجوریں کھا رہا ہے۔

أَعْلَقُ مِنْ قِرَادٍ

چھڑی سے زیادہ چپٹنے والا۔

لَيْسَ الْمُصَلِّقُ كَالْمَتَانِقِ

تھوڑی چیز پر اکتفا کرنے والا پیٹ بھر کی خوشی نہیں۔

يُعْلَمُ مِنْ أَيْنِ (أَوْ مِنْ حَيْثُ) فَوَكُلِ الْكَيْفِ

وہ جانتا ہے ہے کہ شانہ (دست) کو کہاں سے یا کس طرح کھا جاتا ہے۔

مَا كُلُّ يُعْلَمُ يُقَالُ

ہر وہ چیز جو معلوم ہو سکی جانی ضروری نہیں۔

لَا تُعْلَمُ الْيَتِيمُ الْبِكَاةُ

یتیم کو روٹا نہ سکھاتا۔

عِلْمُ الشَّيْءِ وَلَا جَهْلُهُ

کسی چیز کا جانا بہتر ہے نہ کہ نہ جانا۔

أَلْعِلْمُ فِي الصُّدُورِ وَلَا فِي السُّطُورِ

علم سینوں میں ہے نہ کہ سطور میں۔

انه لعالم بمناب القيصص

وہ قصص کے اگنے کے مقامات کو جاننے والا ہے۔

لِكُلِّ عَالِمٍ هَفْوَةٌ

ہر عالم کے لئے کوئی نہ کوئی لغزش ہے۔

أَلْعُلَمَاءُ أَمْنَاءُ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ

علماء مخلوق خدا پر خدا کے امین ہیں۔

اعلم بها من غص بها

اس کو وہی زیادہ جانتا ہے جس کو اس کا اثر پہنچا ہے۔

أَعْلَامُ أَرْضٍ جُعِلَتْ لَطَانِخًا

زمین کے پہاڑ پست زمین بنا دیئے گئے۔ جب کہیں کے معزز لوگ ذلیل کر دیئے جائیں۔

مَنْ غَلَّتْ هَمَّتْهُ طَالِ هَمَّتْهُ

جس کی ہمت بلند ہوگی اس کا فکر بھی طویل ہوگا۔

أَعْصُرُ مِنْ حَيَّةٍ

سانپ سے زیادہ عمر والا۔

أَعْصُرُ مِنْ نَسْرٍ

گدھ سے زیادہ عمر والا۔

لِكُلِّ عَمَلٍ ثَوَابٌ وَلِكُلِّ كَلَامٍ جَوَابٌ

ہر عمل کی جزا ہے اور ہر کلام کا جواب ہے۔

أَلْأَعْمَالُ بِخَوَاتِمِهَا

اعمال کا اعتبار خاتمہ پر ہے۔ یہی مطلب ہے اس قول کا کہ

أَلْأُمُورُ أَحْمَدُهَا مَغْبَةِ

بہترین کام وہ ہے جو قابل تعریف انجام کا حامل ہو۔

إِيَّاكَ أَمْنِي وَمُسْمَعِي يَا جَارَةَ

تجھے ہی مراد لیتا ہوں اور سن لے اے لونڈی۔

وَمِنْ الْعِبَاءِ رِيَاضَةُ الْهَرَمِ

وہ جانتا ہے ہے کہ شانہ (دست) کو کہاں سے یا کس طرح کھا جاتا ہے۔

رجب کے مہینے تک زندہ رہے عجاibat دیکھے گا۔	بڑھاپے میں ریاضت زحمت ہے۔
عشى فَنَعَا تَكُنْ مَلِكًا	عَادَ الْأَمْرَ إِلَى نَصَابِهِ
قانع ہو کر زندگی بسر کرنا بادشاہ ہو جائے گا۔	معاملہ اپنے اصل کی طرف لوٹ آیا۔
العشى نَجْعَةٌ وَالْحَرْبُ خُدْعَةٌ	عَادَتْ بَعَثَهَا لِمَيْسُ
زندگی روزگار کی طلب گاہ اور لڑائی ظاہر فریب تدبیر کا نام ہے۔	لمیس اپنی عادت کی طرف لوٹ گئی۔
أَنْتَ مَرَّةٌ عَيْشٍ وَمَرَّةٌ جَيْشٍ	غَوَّوْذَتْ كَيْدَةً عَادَةً فَاصْبِرْ لَهَا
تو کبھی عیش ہے کبھی لشکر۔ یعنی کبھی خوشحالی اور کبھی جنگی۔	تو نے کدہ کو ایک عادت کا خوگر بنا دیا ہے لہذا اب مبر کرو۔
عَيْنٌ عَرَفَتْ فَذَرْنَتْ	غَوَّوْذَى إِلَى مَبَارِكِكْ
آنکھ نے پہچان لیا اور بھرا آئی۔	اپنے ٹھکانہ تھان کی طرف لوٹ آیا۔ یعنی پہلی حالت پلٹ چل۔
عَيْنٌ الْهَوَى لَا تَصْدُقُ	الْعَوْدُ أَحْمَدُ
خواہشات کی آنکھ (نظر) سچی نہیں ہوتی۔	لوٹنا زیادہ قابل تعریف ہے۔
عَيْنُهُ قِرَارَةٌ	لِكُلِّ غَوَّوْذٍ عَصَارَةٌ
اس کی نظریں دانت دیکھ لینا ہے۔	ہر کبوتری کا ایک پتھر ہے۔ یعنی ہر ظاہر کا باطن ہے۔
عَيْنُكَ غَيْرِي وَالْفَوَادِ فِي ذِي	مَا كُلُّ غَوَّوْذٍ تَصَابٌ
تیری آنکھ رونے والی ہے مگر قلب لبو و لعب میں ہے۔ یعنی مگر مجھ	ہر چھپے ہوئے ظلل کا صحیح پتہ نہیں لگ جاتا۔
کے آنسو بہاتا۔	بِنَسِ الْغَوَّوْضِ مِنْ جَمْدٍ قَيْدُهُ
رب عين انهم من لسان	اونٹ کے بدلے اس کے پاؤں کی رسی پورا بدل ہے۔ یعنی کھوئے
بہت سی آنکھیں زبان سے زیادہ چغل خور ہوتی ہیں۔	ہوئے اونٹ کے بدلے اس کی کیا وقعت و اہمیت ہے۔
بِعَيْنِ تَوَانِي يَا جَمِيلُ أَرَاكَ	مَنْ أَعَانَكَ عَلَى الشَّرِّ ظَلَمَكَ
اے جمیل جس نے آنکھ سے جیسے تو دیکھا اسی آنکھ سے میں تجھے	جس نے شرم میں تمہاری مدد کی اس نے تم پر ظلم کیا۔
دیکھتا ہوں۔	أَجِنِ أَحَاكُ وَلَمْ بِالصُّوْبِ
لَيْسَ لِعَيْنِ مَارَاتٍ	اپنے بھلنے کی مدد کر خواہ آواز سے ہی ہو۔
آنکھ کے لئے نہیں ہے جو اس نے دیکھ لیا۔	أَعْيَى وَخَلَكَ ذَمُّ
الْعَيَانُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْبَيَانِ	میری مدد کر اور مذمت تجھ سے دور ہو جائے گی۔
آنکھوں دیکھی چیز بیان کی محتاج نہیں۔ "عیاں را چہ بیاں"۔	مَا بَعْوَى وَلَا يَنْبُحُ
عِي صَابِتٌ خَيْرٌ مِنْ عِي نَاطِقٍ	نہ غیر آتا ہے نہ بھونکتا ہے۔
خاموش عاجز بولنے والے عاجز سے بہتر ہے۔	لَا فِي الْعَيْرِ وَلَا فِي النَّفِيرِ
أَوَّلُ الْعِي الْإِفْلَاطُ	نہ غیر میں اور نفیر میں یعنی قریش کے تجارتی قافلہ غیر میں اور لڑاکا
غضب میں آنا عاجزی کی ابتداء ہے۔ یعنی دلائل سے عاجز انسان	قافلہ نفیر میں شریک نہ ہونے پر طعن۔
ہی غصہ ہوتا ہے۔	مَهْمَا يَعِشُ قَرَهُ
أَعْيَى مِنْ بَاقِلٍ	جتنا تو زندہ رہے گا تو دیکھے گا۔
باقل سے بھی زیادہ اپنی مراد ظاہر کرنے سے عاجز۔	عَيْشُ قَرَهُ مَا لَمْ قَرَهُ
	زندہ رہو وہ دیکھے گا جو تو نے نہیں دیکھا۔
	عَيْشُ رَجَبَاتٍ عَجَبًا

غ

غَشَّكَ خَيْرٌ مِنْ سَتَمِينِ غَيْرِكَ

تمہارا ادبلا غیر کے قرب سے بہتر ہے۔

غَدْرُكَ دَلِكُ عَلَى الْاِنْسَاءِ

جس نے برائی کی طرف تمہاری رہنمائی کی اس نے تم سے غداری

کی۔

اَعْدُو مِنْ غَدِيرٍ

جو ہر وقت اپنے مالک کا پانی جذب کر رہتا ہے اور کچھ دن بعد خشک

کر دیتا ہے۔

اِنْ عَدَا لِنَاظِرَةِ قَرِيْبٍ

آنے والی کل اس کے دیکھنے والے کے لئے قریب ہے۔

عَسَى غَدًا لِيغَيِّرَكَ

ممکن ہے آئندہ کل تیرے غیر کے لئے ہو۔ اس لئے آج کے کام کو

کل پر نہ مال شاید وہ تجھے کل کو نڈل سکے۔

لِكُلِّ غَدٍ طَعَامٌ

ہر آئندہ کل کے لئے کھانا ہے۔ اللہ کے فضل پر توکل کرو۔

اَغْرٌ مِنْ سَرَابٍ

سراب سے زیادہ دھوکا دینے والا۔

اَغْرٌ مِنَ الْاِمَالِي

آرزوں میں سے زیادہ فریب دینے والا۔

اَغْرٌ مِنْ ظَنِّي مُقْبِرٍ

چاندنی میں ہر پھرنے والے ہرن سے زیادہ فریب کھایا ہوا۔

وَكُلُّ غَرِيْبٍ لِلْغَرِيْبِ نَسِيْبٌ

مسافر مسافر کا قریب ہوتا ہے۔

مَنْ غَرَبَلِ النَّاسِ نَخْلُوهُ

جو لوگوں کو چھانے گا لوگ اس کو چھان کر جھوسی نکال دیں گے۔ جو

لوگوں کو برا کہے گا لوگ اس کو زیادہ برا بھلا کہیں گے۔

غَرَبَانَ فَاَرَبِكُوَالَهُ

بھوکا ہے اس کے لئے کھانا تیار کرو۔

اَوَّلُ الْغَزْوِ اَحْمَقُ

پہلی لڑائی نا تجربہ کار ہوتی ہے۔

اَغْشَمُ مِنَ السَّيْلِ

سیلاب سے زیادہ ظالم۔

مَنْ غَضِبَ مِنَ الْاَنْفَسِ رَضِيَ مِنْ لَاشِي

جو ادنیٰ چیز سے غضبناک ہو گا وہ ادنیٰ چیز سے راضی بھی ہو جائے گا۔

غَضَبُ الْخَيْلِ عَلَى الْحِمِّ

گھوڑوں کا غصہ لگاموں پر ہوتا ہے۔ یعنی جس پر زور چلے اسی پر

انسان نکالتا ہے۔

غَلَّ يَدَا مُطْلِقِهَا

ہاتھ میں اس کے آزاد کرنے والے نے طوق ڈال دیا ہے۔

مَصِيْبَةٌ سَعَى جَحْرًا كَرَامًا كَاغْلَامٍ بَنَالِيَا

مصیبت سے چھڑا کر احسان کا غلام بنا لیا۔

اِذَا لَمْ تَغْلِبْ فَانْحَبِ

غالب نہ آسکے تو حسن تدبیر سے کام کر۔

مَنْ غَالَبَ الْاَيَّامَ غَلِبَ

جو زمانہ پر غالب آنے کی کوشش کرے گا وہ مغلوب ہوگا۔

يَغْلِبُنِ الْكِبْرَامَ وَ يَغْلِبُهُنَّ اللَّيْنَامُ

عورتیں شریفیوں پر غالب آتی ہیں اور کینے مردان پر غالب آتے

ہیں۔

اَلْفَصْرَاتُ ثُمَّ يَنْجَلِيْنَ

اب سختیاں میں پھر جدا ہو جائیں گی۔

عَنَمٌ مِّنْ سَلِيْمٍ

جو بیخ راہہ غنیمت رہا۔

اَغْنَى الصَّبَاحُ عَنِ الْمَصْبَاحِ

صبح نے چراغ سے بے نیاز کر دیا۔

اَغْنَى عَنِ الشَّيْءِ مِنَ الْاَقْرَبِ عَنِ الْمُسْطَبِ

کسی چیز سے اس سے بھی زیادہ بے نیاز جتنا منجھا گنکھی سے۔

وَهَلْ يُغْنِي مِنَ الْحَدَثَانِ كَيْتٌ

کیا کاش کہا حوادث سے بے نیاز کر سکتا ہے۔

مَنْ لَمْ يُغْنِهِ مَا يَلْفِيهِ اَعْبَزَهُ مَا يَغْنِيهِ

جس چیز شخص کو کافی ہونے والی چیز نے بے نیاز نہ کیا اس کو بے نیاز

کرنے والی چیز عاجز کر دے گی۔

غَنَى النَّفْسُ اَفْضَلُ مِنْ غَنَى الْمَالِ

نفس کی بے نیازی مال کی بے نیازی سے بڑھ کر ہے۔

اِنَّ الْغَنَى طَوِيْلُ الدِّيْبِلِ مَيَّاسٌ

مالدار دامن دراز اور ناز سے چلنے والا ہے۔ یعنی مال دار اپنی

مالداری کو سختی نہیں رکھ سکتا۔

مَنْ غَابَ غَابَ نَصِيْبُهُ

وہ دونوں ریس کے گھوڑوں کی طرح ہیں۔ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔

مَا كَلُّ فُرْصَةَ مُنَالٍ

ہر فرصت دوبارہ نہیں ملتی۔ موقعے بار بار نہیں ملتے۔

أَفْرَطَ فَاسْقَطَ

وہ بولا اس نے غلطیاں کی بہت زیادہ۔

تَفَرَّقَ الْقَوْمُ أَيْدَى سَبَا أَوْ أَيْدَى

قوم پر اگندہ ہو گئی سہا کے لشکر کی طرح۔

مَنْ فَسَدَتْ بَطَانَتُهُ كَانَ كَمَنْ مَضَى بِالْمَاءِ

جس کے اہل عیال سے گبز جائیں وہ اس طرح ہے جس پانی سے اچھو لگ جائے۔

أَفْسَدَ مِنَ السُّوسِ

کپھرہ (گھن ڈالنے والا کیرا) سے زیادہ فساد پیدا کرنے والا۔

أَفْسَدَ مِنَ الْجِرَادِ

ٹڈی سے زیادہ فساد پیدا کرنے والا۔

الْمُسَدُّ مِنَ الزُّحْبَةِ

دبک سے زیادہ فساد پیدا کرنے والا۔

فَسَا يَنْبِيهِمْ مَظْرَبَانِ

ان کے درمیان ظربان گوز مار دیا۔

أَفْصَحَ مِنْ سَخْبَانِ وَأَنْلَ

سحبان وائل سے زیادہ فصیح۔

فَفُضِّلَ الْفَعْلُ عَلَى الْقَوْلِ مَكْرَمَةٌ

قول سے عمل کی زیادتی بزرگی ہے۔

فَفُضِّلَ الْقَوْلُ عَلَى الْفَعْلِ ذِنَاءَةٌ

عمل پر قول کی زیادتی کمینگی ہے۔ کئے سے زیادہ کہنے کمینہ پن ہے۔

الْفَضْلُ لِلْمَبْتَدِئِ وَإِنْ أَحْسَنَ الْمُقْتَدِئِ

فضیلت ابتداء کرنے والے کے لئے ہے۔ خواہ پیروی کرنے والا

اس سے اچھا کر کے دکھائے۔

أَفْضَلُ الْمَعْرُوفِ إِغَاثَةُ الْمَلْهُوفِ

بہترین نیکی مصیبت زدہ کی فریاد کو پہنچانا ہے۔

لَا أَفْعَلُ كَذَا مَا أَنْ السَّمَاءَ سَمَاءً وَلَا أَفْعَلُهُ مَا أَنْ فِي السَّمَاءِ

نجماً

میں ایسا نہیں کروں گا جب کہ آسمان آسمان ہے میں یہ کام نہیں

کروں گا جب تک آسمان پر کوئی ستارہ ہے۔

جو غائب ہوا اس کا حصہ بھی غائب ہوا۔ غائب کو یاد رکھنا دلیل کرم ہے۔

الْغَيْبَةُ جَهْدُ الْفَاجِزِ

چیز چھپنے پر آئی عاجز کی طاقت ہے۔

كَالْمَسْتَعِثِّ مِنَ الرَّمْضَاءِ بِالنَّارِ

اس شخص کی طرح جو سورج کی گرمی سے آگ کی طرف لے جاتے۔

أَغْيَرَةٌ وَجِنَانٌ

کیا غیرت بھی اور نامرادی بھی۔

غَيْضٌ مِنْ فَيْضٍ

بہت میں سے تھوڑا۔

عِنْدَ الْغَايَةِ يُعْرَفُ السَّبْقُ

انتہا کے وقت سبقت معلوم ہوگی۔

ف

قَتَلَ فِي الذُّوْزَةِ وَالْفَارِبِ

اس کو بان کے اوپر اور آگے بل دیا۔ بہلا پھسلا کر راضی کر لیا۔ فتنی

فَنَى وَلَا كَمَا لَكَ

جوان اور بھی لیکن مالک جیسے نہیں۔ مالک بن نوریہ بن حمزہ بنی مضر

ابن زرار میں سے کا لڑکا تھا جس کو حضرت خالد بن ولید نے قتل کر دیا

تھا۔ اس کا بھائی محتم کو عرصہ تک اس کی موت کا شدید رنج و غم رہا۔

لوگ تعزیت کے طور پر دوسرے مشتمل نو جوان کا ذکر کرتے تو محتم

کہتا: وہ جوان تو ہے لیکن میرے بھائی مالک جیسا نہیں۔

أَيُّ فَنَى قَتَلَهُ الذُّخَانُ

کون سا جوان ہے جس کو دھوئیں نے مارا ہو۔ کسی عورت نے ایسے

جوان پر نوکر کرتے ہوئے کہا تھا تھا جو دھوئیں سے مر گیا تھا یعنی

مرنے والا سیدھا اور بے تدبیر تھا۔

كُلُّ فَنَاءَةٍ بِأَيِّهَا مُفْجِئَةٌ

ہر وہ چیز اپنے باپ کے ساتھ تاز کرتی ہے۔

رُبُّ فَرْحَةٍ تَعُوذُ تَرْحَةً

بہت سی خوشیاں رنج بن جاتی ہیں۔

لَيْسَ الْقَرَسُ بِجَلِيلٍ

گھوڑا اپنی نجل (جھول) کی وجہ سے نہیں گھوڑے۔ گھوڑے کی

قیمت جھول کی خوبصورتی سے نہیں۔

هَمَّا كَمَا فَرَسِي وَهَانَ

فَكُنْتُ كَفَافِي غَيْبِهِ عَمْدًا

میں اس شخص کی طرح ہو گیا جو اپنی آنکھیں پھوڑ ڈالے۔

خَيْرُ الْفِقْهِ مَا حَاضَرَ بِهِ

بہترین علم وہ ہے جو ضرورت کے وقت جواب دے سکے۔

لَا تَفْكَرْ فَلَهَا مُدَبِّرٌ

نہ فکر کیونکہ اس کا تدبیر کرنے والا ہے۔

لَا يَقْبَلُ الْحَدِيدَ إِلَّا الْحَدِيدُ

لوہے کو لوہا ہلکا کرتا ہے۔

فَمُتَسَبِّحٌ وَبَدَّ تَذْبِيحٌ

منہ تسبیح پڑھ رہا ہے اور ہاتھ قتل۔ کہتے ہیں بغل میں چھری اور منہ

سے رام رام۔

فِي لَمِي مَاءٍ وَهَلْ يَنْطِقُ مَنْ فِيهِ مَاءٌ

میرے منہ میں پانی ہے اور کیا وہ شخص بولتا ہے جس کے منہ میں پانی

ہو۔

يَفْسِي مَا فِي الْقُدُورِ وَيَقْفِي مَا فِي الصُّدُورِ

جو ہانڈیوں میں ہے وہ فنا ہو جائے گا اور جو سینوں میں ہے باقی

رہے گا یعنی مال فنا ہو جائے گا اور علم باقی رہے گا۔

لَمْ يَفُتْ مَنْ لَمْ يُمُتْ

جو مرنا نہیں وہ فوت نہیں ہوا۔

الْفَايِتُ لَا يَسْتَدْرِكُ

فوت شدہ پھر نہیں مل سکتا۔

أَفْوَتْ مِنْ أَمْسٍ

کل گزشتہ سے زیادہ فوت شدہ۔

مُفَوِّزٌ عَلِقَ سُنَابِلِيَا

(بیابان طے کرنے والے نے بوسیدہ مکینزہ لٹکا یا ہے حقیر سامان پر

خطرناک مہم سر کرنے چلا ہے۔

أَفَقَ قَبْلَ أَنْ يَخْضُرَ قَرَاكُ

ہوش میں آ جا قبل اس کے کہ تیری قبر کھود دی جائے۔

أَفْوَاهُا مَجَاسِهَا

ان کا منہ ان کے امتحان کی جگہ ہے۔

ق

قبة نجران

نجران کا قبر۔ یہ قبر مبارک سمجھا جاتا تھا۔

كَالْقَابِسِ الْعَجْلَانَ

جلد باز آگ لینے والے کی طرح۔ جو اپنی ضرورت کو پورا کرنے

میں جلدی کرے۔

كَالْقَابِضِ عَلَي الْمَاءِ

پانی کو نمٹی میں پکڑنے والے کی طرح۔ حاصل نہ ہونے والی چیز

طلب کرنے والا۔

إِنَّهُ لَقَبِضَةٌ رَافِضَةٌ

وہ کبھی پکڑنے والا اور کبھی چھوڑنے والا ہے۔

قَتَلْتُ أَرْضَ جَاهِلِيَّهَا

زمین نے اپنے سے بخر کو مار ڈالا ہے۔

أَلْقَتُلُ أَنْفِي لِلْقَتْلِ

بعض قتل زیادہ روکنے والے ہیں قتل سے۔

مَقْتُلُ الرَّجُلِ بَيْنَ فَكْحِيهِ

آدمی کی قتل گاہ اس کے دونوں جیزوں کے درمیان ہے۔

قَدَّتْ سَيُورَةٌ مِنْ أَدِيمِكُ

اس کے تھے تیری کھال سے کاٹے گئے ہیں۔ یعنی ایک جیسے ہیں۔

مَنْ يَقْبَلُ عَلَي رِدِّ أَمْسٍ أَوْ تَطْيِينِ عَيْنِ الشَّمْسِ

گزشتہ کل کے لوٹانے یا شمرہ آفتاب پر خاک ڈالنے کی قدرت

کون رکھتا ہے۔

إِنَّ الْمَقْدَرَةَ تَذْهَبُ الْخَفِيظَةَ

جب بھائی چارا پرانا ہو جاتا ہے تو تعریف بری معلوم ہوتی ہے۔

إِذَا قَدَّمَ الْأَخَاءَ سَمِيخَ النَّاءِ

جب بھائی چارا پرانا ہو جاتا ہے تو تعریف بری معلوم ہوتی ہے۔

يُقَدِّمُ رَجُلًا وَيُؤَخِّرُ أُخْرَى

ایک قدم آگے بڑھاتا ہے دوسرا پیچھے ہٹاتا ہے۔

لَيْسَ الْقَوَادِمُ كَالْفَوَافِي

بڑے آخر بڑے ہیں بڑے چھوٹے کی طرح نہیں۔

لِكُلِّ قَدِيمٍ حُرْمَةٌ

ہر پرانی چیز کی ایک حرمت ہوتی ہے۔

لَيْسَ بِمَا قَرَّتْ بِهِ الْعَيْنُ لَيْمِينٌ

جس چیز سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں اس کی کوئی قیمت نہیں۔

أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

شرگ سے زیادہ قریب۔

لَأَقْرَبُةُ كَخَسَنِ الْخَلْقِ

خوش اخلاقی سے بہتر تقرب کا کوئی ذریعہ نہیں۔

لا قليل قلب له ظفر المصن

اس کی طرف ڈھال کی پشت پھیر دی۔ دیرینہ محبت کا لحاظ اٹھا دیا۔

القلب مضحف البصر

دل سے دل کو راہ ہے۔

من القلب الى القلب

دل سے دل کی طرف۔

ففي بغض القلوب غيوت

بغض دل میں آنکھیں ہوتی ہیں۔

القلوب تجازي القلوب

دل ہی دل کی مکافات کرتے ہیں۔

اقلع شو كك بيدك

اپنے کانٹے کو اپنے ہاتھ سے نکال۔

في القمر ضياء والشمس أضوء منه

چاند میں روشنی ہے لیکن سورج اس سے بھی زیادہ روشن ہے۔ عام

خوبی میں شریک ہیں مگر ایک بڑھ کر ہے۔

لا تفتن من تكلب سوء جزوا

کتنے کا پامت پال۔

كل قايب من قلوب

ہر چوزہ اٹلے سے لگتا ہے۔

من قال ما لا ينبغي سمع ما لا يشتهي

جو شخص نامناسب بات کہے گا وہ نامرغوب باتیں سنے گا۔

لو قلت نمره لقال جمره

اگر میں گھجور کہوں تو وہ انگارہ کہے گا۔

قد قيل ذالك ان حقا وان كذبا

یہ بات کو کہی جا چکی۔ سچ ہو یا جھوٹ۔

إذا قالت حذام فصد قوها فإن التول ما قالت حذام

جب حذام کوئی بات کہے تو اس کی تصدیق کرو۔ کیونکہ قول وہی

درست ہے جو حذام نے کہا۔

القول ينفذ ما لا تنفذ الابو

بات اس چیز میں بھی سوراخ کر دیتی ہے جس کو سوئی نہیں چھید سکتی۔

ما نكل قول له جواب

ہر بات کا جواب نہیں۔

رُب قول أشد من ضول

بہت سی باتیں حملہ سے بھی زیادہ سخت ہیں۔

إذا فرح الجنان بكت العينان

جب دل رنجی ہوتا ہے تو آنکھیں روتی ہیں۔

إذا ما القارظ الغزي ابا

جب غزی قارظ کے پتے چننے والا واپس آ جائے۔

فلان لا تفرع العصا

فلاں کے لئے عصا نہیں کھٹکنا یا جاتا۔ یعنی اس سے نلٹھی ہی نہیں ہوتی

جس پر متنبہ کیا جائے۔

قرئك سهنك يخطي ويصيب

تیرا ساتھی تیرا تیر ہے جو کبھی خطا کرتا ہے اور کبھی نشانہ پر لگ جاتا

ہے۔ نلٹھی پر چشم پوشی کرنی چاہئے۔

أقصى من صخر

چٹان سے زیادہ سنگدل۔

قشرت له العصا

میں نے اس کے واسطے عصا کو چھیلایا۔

أقصر لئنا أنقر

جب دیکھا تو بازو گر گیا۔

ما أقصر لليل على الراقد

سونے والے پر رات کتنی چھوٹی ہوتی ہے۔

كل مقتصر عليه كان

جس چیز پر اکتفا کر لیا جائے وہ کافی ہے۔

لكل قضاء جالب وشكل در خالب

ہر حکم کا کوئی موجد ہوتا ہے اور ہر دودھ کا کوئی دوہنے والا۔

قطعت جھيزة قول كل خطيب

جھیزہ نے ہر بولنے والے کی بات کاٹ دی، ختم کر دی۔ سوا باتوں

کی ایک بات۔

إذا أقطعنا علما بدا علم

جب ایک پہاڑ کو ہم نے طے کر لیا تو دوسرا پہاڑ ظاہر ہو گیا۔

تقطع أحناف الرجال المطلاع

لا اچ لوگوں کی گردنیں کٹا دیتی ہے۔

من قل ذل ومن أمر قل

جو شخص کم ہوا وہ ذلیل ہو گیا اور جو ذلیل ہو گیا ہو کند کر دیا۔

لا قليل من العدو ولا عن والمرض

دشمنی، کینت اور مرض ذرا سی چیز بھی کم نہیں۔

وبعض القول يذهب في الرياح
بعض باتیں ہوا میں اڑ جاتی ہیں۔

إذا قام بك الشر فافعد

جب شر تجھے کھڑا کرے تو تو بیشارہ۔ ہر حال میں بردبار رہ۔

لكل مقام مقال

ہر جگہ کے مناسب ایک گفتگو ہوتی ہے ہر بات کا موقع ہوتا ہے۔

هل يستقيم اطلل والعود اغوج

کیا سایہ سیدھا ہو سکتا ہے جبکہ لکڑی ٹیزھی ہو۔

قيمت كل امرئ ما ينحسره

ہر شخص کی قیمت وہ ہے جو اسے اچھا بناتی ہے۔

ك

اكثر من لبد

لبد سے زیادہ عمر۔

اكثر من الارض

زمین سے زیادہ چھپانے والا۔

من اكثر اخبو

جو زیادہ بولے گا بکواس کرے گا۔ اھجارہ: بیہودہ باتیں کرنا۔

تكثر الحزو وتخطيبي المفضل

تو بہت کاٹتا ہے مگر جوڑ پر غلطی کھاتا ہے۔ سخت کوشش ہے مگر عین موقع پر غلطی کر جاتا ہے۔

من كثرة الملاحين غرقت السفينة

ملاحوں کی کثرت سے کشتی ڈوب گئی۔

ان كان لك اكثرى فتجاف لي من اليسرى

میرا بہت تمہارے لئے وقف ہے تو میرے تھوڑے سے درگزر کر۔

المكشاة كحاطب ليل

زیادہ بولنے والی اور بات کی لکڑیاں جمع کرنے والے کی طرح ہے۔

اخذ لي اكدح لك

تو میرے لئے سعی کر میں تیرے لئے سعی کروں گا۔

اكذب النفس اذا حدثتها

جب اپنے دل سے باتیں کر میں تیرے لئے سعی کروں گا۔

الكذب ذاء والصدق شفاء

جھوٹ بیماری ہے اور سچ شفا ہے۔

ان كذب نجي فصدق اخلق

اگر جھوٹ نے نجات دے دی تو سچ بدرجہ اولیٰ نجات دینے والا ہے۔

اكذب من يلعم

سراب سے زیادہ جھوٹا۔

اكذب اخذو فة من اسير

قیدی سے زیادہ جھوٹ بولنے والا (روایت کرنے والا)۔

اكذب من الاخيذ

قیدی سے زیادہ جھوٹا۔

اكذب من ذب و ذرج

زندوں اور مردوں میں سب سے زیادہ جھوٹا۔ دب زمین پر چلا۔

درج ختم ہو گیا۔ یعنی زندہ و مردہ۔

ان كنت كذوباً فكن زكورا

اگر تو جھوٹا ہے تو یاد رکھنے والا بھی بن۔ کیونکہ جھوٹا بھول جاتا ہے۔

كان كوراغا فصار ذراغا

وہ کراغ تھا پھر گز بن گیا۔ کھر کے قریب کا حصہ یعنی ذلیل قوی اور

معزز بن گیا۔

حتام تكبرع ولا تنفخ

تو کب تک پانی پیتا رہے گا۔

من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته

جس شخص کو اپنا نفس حریص ہوگا اس کو اپنی شہوت حقیر معلوم ہوگی۔

استكمرت فازتبط

تو نے شریف الاصل کو پالیا لہذا باندھ۔

اكرم من حاتم طي

حاتم طائی سے زیادہ سخی۔

الكرنم اذا رنم على الضيم تما

شریف آدمی کو جب غلم پر مائل کیا جائے تو وہ دور ہو جاتا ہے۔

مكورة اخوك لا بطل

تیرا بھائی مجبور کیا گیا ہے پہلو ان نہیں ہے۔ جرأت سے نہیں مجبوری

سے کر رہا ہے۔

اكسب من نعل

چھوٹی سے زیادہ کمانے والا۔

اكسب من ذنب

بھیڑیے سے زیادہ طلب کرنے والا۔

اكسفا وامساكنا

کیا ترش روئی اور بخل دونوں۔

اكنسى من بصلية

بیاز سے زیادہ لباس پہننے والا۔ بیاز کی طرح نہ بد لباس پہننے ہوئے ہے۔

عصبة نخوان

بین کا قدیم ترین شیر۔ بجران میں لوگوں کی زیارت گاہ۔

كالكعبية ترازو ولا تنزور

کعبہ کی طرح ہے جس کی زیارت کی جاتی ہے۔ وہ کسی کی زیارت کو نہیں جاتا۔

هذا الكعك من ذاك العجين

یہ ایک اسی آٹے کا تو ہے۔

الكفر منجته لنفس النعم

کفر ان نعمت منعم کو حاسد نفس کرنے والا ہے۔

الكفالة ندامة

کفالت اور ضمانت موجب پشیمانی ہے۔

كفى المرء فضلا ان تعد معايلة

آدمی کے فضل کے لئے یہی بات کافی ہے کہ اس کے عیب شمار ہو جائیں کیونکہ انسان میں بے شمار عیب ہوتے ہیں۔

يكفيك مما لا تروى ما قد تروى

تمہارے لئے دیکھی ہوئی چیزیں اُن دیکھیں چیزوں کی طرف سے کافی ہیں۔ جو دیکھ وہی عبرت کے لئے کافی ہے۔

من كان لك كحلته كان غلبك كحلته

جو شخص پورا تمہارے لئے ہے اس کا پورا بوجھ تم پر ہے۔ اس کے مصارف برداشت کرنے ہوں گے۔ کتل: بوجز۔

والكلل محنول على اذى الفضل

بوجھ اہل ثروت پر ہی ڈالا جاتا ہے۔

كل كلب يبايه نباخ

ہر کتا اپنے دروازے پر بھونکنے والا ہے۔

الكلب كلب لو طوفته ذهباً

کتا کتابی رہے گا خواہ اس کے گلے میں سونے کا طوق ڈال دیں۔

كلب عس خبز من اسيد بر نص

گھومنے اور تلاش کرنے والا کتا شکار پر بیٹھے ہوئے شیر سے بہتر ہے۔ عس: طلب کرنا۔ طواف کرنا۔

كلفتى من الغوض

کلفتی منغ الغوض

تو نے مجھے مچھر کے مغز کی تکلیف دی ہے۔ ناممکن چیز کی طلب کرنا۔

كلفت القربة

میں نے تیری طرف آنے میں مکینزہ کے سینے کی تکلیف اٹھائی۔ اتنی زحمت اٹھائی جتنی منگ اٹھانے میں ہوتی ہے۔

ليس مع التكلف نظرف

تکلف کے ساتھ ظرافت نہیں ہوتی۔

كلام الليل يمشوه النهار

رات کی بات کو دن مٹا دیتا ہے۔

كلام كما الغسل وفعل كما النسل

کلام شہد کی اور کام کبیرے کی طرح

کلام تین و ظلم بہن

کلام نرم اور ظلم کھلا ہوا۔

كلامه يفتح لى نفس

اس کا کلام بجز میں ہوا کی طرح ہے۔

لكل كلام جواب

ہر کلام کا جواب ہوتا ہے۔

زب كلمة سلب بغممة

بہت سے گلے نعمت سلب کر دیتے ہیں۔

لو كحوت غلى اذا لم اكمره

اگر مجھے بیماری کی وجہ سے داغ دیا جاتا تو میں ناگوار نہ جانتا۔

تليدى نصيدة

زمین پر چٹ جاتا کہ تو شکار کرے۔

ليس له جلد النهر

اس کے لئے چیتے کی کھال اوڑھ لی۔ دشمنی ظاہر کی، بھیڑ یا بن گیا۔

بعد اللتياء والى

اس کے اور اس کے بعد۔ چھوٹی بڑی مصیبت کے بعد مثل قصہ

طلب ہے۔ جدیس کے ایک شخص نے ایک پستہ قد عورت سے شادی

کی اس سے بہت تکلیفیں پہنچیں۔ چھوڑ کر دوسری کی۔ یہ دراز قد تھی

اور اس سے پہلی سے بھی دو گنی تکلیفیں پہنچیں۔ اس کو بھی طلاق دے

دی اور عہد کیا کہ بعد النيا والى لا التزوج ايما نا۔

ومن اللجاجة ما يضر وينفع

بعض جھتیں وہ ہیں جو ضرر پہنچاتی ہیں اور نفع بھی دیتی ہیں۔

اللحظ احذق اباء من اللفظ

نگاہ الفاظ کی بہ نسبت زیادہ تکی خرد دیتی ہے۔

لَحْظًا أَضْدَقِي مِنْ لَفْظٍ

نظر لفظ سے زیادہ چمکی۔

لَا لِحَقْنِ حَوَائِقِنَهُ بَدْوِاقِنَهُ

میں اس کے منہ کو ٹھوڑی سے ملا دوں گا۔

إِذَا تَلَّحَبَتِ الْخُضُومُ تَسَافَهَتِ الْعُلُومُ

جب دشمن گالی گلوچ پر آئے تو بردبار بھی احمق بن جاتے ہیں۔

قُوْتٌ بَرْدَا شَتِّ خْتَمٌ هُوَ جَاتِي هُوَ

من لا حاك ففقد عاداك

جس نے تجھے برا بھلا کہا اس نے تجھ سے دشمنی کی۔ الملاحاة: ایک

دوسرے کو ملامت کرنا۔ برا بھلا کہنا۔

تَلْدَغُ الْعُغْرُبُ وَيَضُخُ

بچھوڑ تک بھی مارتا ہے اور چنچنا بھی ہے۔ صاء چو ہے بچھو خنزیر اور

ان جھسی چیزوں کا چنچنا۔ آواز نکالنا۔ اس ظالم کے لئے کہتے ہیں جو

خود ہی فریاد بھی کرے۔

الَّذِي مِنَ الْغَيْمَةِ الْبَارِدَةِ

نخیمت بارہ سے زیادہ لذیذ۔

الَّذِي مِنَ الْمُنَى

آرزوں سے زیادہ لذیذ۔

الزَّمُ لِلْمَرْءِ مِنْ ظَلْمِهِ

سایہ سے بھی زیادہ آدمی کے ساتھ لازم رہتا۔

الزَّمُ مِنَ الْيَمِينِ لِلشَّمَالِ

پائیں کے لئے داہنے سے بھی زیادہ لازم۔

الزَّمُ مِنْ زَرْبِ الْغُرُوبَةِ

اس سے بھی زیادہ لازم جتنا کہ شمن کاج کے لئے لازم ہوتا ہے۔

لِسَانُ الْحَالِ بَيْنَ مِنْ لِسَانِ الْمَقَالِ

زبان حال زبان قال سے زیادہ واضح ہے۔

لِسَانٌ مِنْ زَطَبٍ وَيَنْدُ مِنْ غَسْبٍ

زبان تر کھجور ہے اور ہاتھ کلڑی کا ہے۔

لِسَانُ الْمَرْءِ مِنْ عَدَمِ الْفُرَادِ

مرد کی زبان دل کے خدام میں سے ہے۔

اللِّسَانُ مَرْكَبٌ ذُلُومٌ

زبان سدھی ہوئی سواری ہے۔ یعنی اختیار میں ہے۔

الْقَمُّ نُورٌ النِّقْمُ

بہت سے لقمے غصہ اور انتقام پیدا کرتے ہیں کہ اللہ کا غضب اور

رشوت دینے والے کی ناراضگی اس کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے۔

لَوْ الْقَمْتَهُ غَسَلًا لَفَضَّ اضْبَعِي

اگر میں نے اسے شہد بھی چنایا تو وہ میری انگلی بھی چبا ڈالے گا۔

كَأَنَّمَا الْقَمَّةُ الْحَجَرُ

گویا کہ اس کو پتھر ٹکڑا دیا ہے۔ "امت کا جواب پتھر سے دیا۔"

لَقِيَتْ مِنْهُ عَرَقَ الْبِرْتِنَةِ

میں نے اسے منگ کے پسینے کی محنت و مشقت اٹھائی۔

مَا يَلْقَى الشَّجِيءُ مِنَ الْحَبِيئِ

شکمین بے غم سے کیا پائے گا۔

أَلْقَى خَيْلَهُ عَلَى غَارِبِهِ

اسی کی رسی اس کے گویا ہان پر ڈال دو۔

أَلْقَى فِي إِذْلَاءٍ ذُلُوكَ

ڈولوں میں تم بھی اپنا ڈول ڈال دو۔ دوسروں کے ساتھ تم بھی

قسمت آزاؤ۔

أَنَّى يَلْقَى وَالسَّهَى سَهِيلٌ وَالسَّخَى

سہیل اور سہا کہاں لکتے ہیں۔ سہیل قطب جنوبی کی سمت ایک ستارہ

ہے۔ سہا: قطب شمالی کے قریب بنات النعش کا ایک چھوٹا سا ستارہ

ہے۔

مَنْ يَلْقَ الْأَهْطَالَ الرَّجَالَ يَكَلِمُ

جو پہلوانوں سے دوچار ہو گا وہ زخمی ہو گا۔

بَغِيرِ الْهَوَى تَرْتَقِي الْفَتُوقُ

کھیل ہی میں شکاف پر نہیں ہو جاتے۔

لَيْسَ يَلَامُ مَارَبٌ مِنْ خَفِيَّةِ

اپنی موت سے بھاگنے والے سے ملامت نہیں کی جاتی۔

رَبِّ لَاتِمِ مَوْلِمِ

بہت سے ملامت کئے ہوئے لوگوں کا کوئی عذر نہیں۔

رَبُّ مَلُومٍ لَا ذَنْبَ لَهُ

بہت سے ملامت کئے ہوئے لوگوں کا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔

رَبُّ مَلُومٍ لَا عِذْرَ لَهُ

بہت سے ملامت کئے ہوئے لوگوں کا کوئی عذر نہیں ہوتا۔

اللَّيْلُ احْفَظِي لِلزَّوِيلِ

رات شر کو زیادہ چھپانے والی ہے۔ رات ہر اچھے برے کام کو چھپا

لیتی ہے۔

اللَّيْلُ طَوِيلٌ وَأَنْتَ مُقِمَّرٌ

رات کی ہے اور تو چاندنی میں ہے یعنی صبر کرو مراد پوری ہونے والی ہے۔

مَا كَانَ لَيْلِي عَنْ صَبَاحٍ يَنْجَلِي
میری رات صبح کو ظاہر نہیں کرتی۔

إِنَّهُ اللَّيْلُ وَأَخْوَا جِ الْوَادِي
رات ہے اور وادی کے پیچھے خم۔

لِيُنِ الْكَلَامَ قِيْدَ الْقُلُوبِ

نرم بات دلوں کی بیڑی ہے۔ پیار سے تو پتھر بول بھی موم ہو جاتا ہے۔



مِثْلُ النَّعَامَةِ لَا ظَيْرٌ وَلَا جَمَلٌ

شتر مرغ کی طرح ہے کہ نہ پرندہ ہی ہے اور نہ ہی اونٹ۔ چگا ڈر کی طرح نہ پرندہ نہ چوپایہ۔

مِثْلُ ابْنَةِ الْجَبَلِ مَعَمَا يَقْلُ تَقْلُ

صدائے بازگشت کی طرح کہ جب بھی کوئی بولے وہ بول اٹھے۔ ہر بات کی تائید کرنے والا بے مغز۔

لِيَجْلِي هَذَا كُنْتُ أَحْسَبُ الْخِصَا

ایسے ہی وقت کے لئے میں تجھے حریرہ بلا تا تھا اسی وقت کے لئے پالا تھا۔ اب ضرورت پر کام آ۔

بِمِثْلِي يُنْكَأُ الْقَرْحُ

وہی مجھ جیسے شخص کے ہاتھ زخم کرید اجاتا ہے۔

مَنْ مَحْضَنَكَ مَوْدِنَهُ فَقَدْ خَوْلَكَ مَهْجَةً

جس نے اپنی محبت تیرے لئے خلوص کی اس نے جان کا تجھے مالک بنا دیا۔

عِنْدَ الْاِمْتِحَانِ يُكْرَمُ الرَّجَالُ أَوْ يُهَانُ

امتحان کے وقت آدمی کی عزت ہوتی ہے یا بے عزتی۔

مَعَ الْمَخْضِ يَنْدُو الزَّيْدُ

بلونے ہی سے کھن ٹکاتا ہے۔ یعنی کوشش ہی سے مراد حاصل ہوتی ہے۔

قَدْ كَانَ ذَلِكَ مَرَّةً فَالْيَوْمَ لَا

یہ کبھی تھا مگر اب نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ہو چکا ہے آج ممکن نہیں۔

أَمْرٌ مِنَ الْعَلْمِ

خُظْلٌ (اندر اُن) سے زیادہ کڑوا۔

أَمْرٌ مِنَ الْحِظْلِ

خُظْلٌ (اندر اُن) سے زیادہ کڑوا۔

الْمَرْءُ بِأَصْفَرِيهِ

آدمی اپنے قلب و زبان کی وجہ سے ہی آدمی ہے۔

الْمَرْءُ تَوَاقٍ إِلَى مَا لَمْ يَنْلُ

آدمی ان چیزوں کا شائق ہوتا ہے۔

الْمَرْءُ حَيْثُ يَضَعُ نَفْسَهُ

آدمی اس درجہ پر ہوتا ہے جہاں اپنے نفس کو رکھے۔ اپنی عزت اپنے ہاتھ ہے۔

الْمَرْءُ بِخَبْلِيهِ

آدمی اپنے دوست کے ساتھ شمار ہوتا ہے۔ دوستوں سے بچچا جاتا ہے۔

الْمَرْءُ مِرَاةٌ أَخِيهِ

آدمی اپنے بھائی کا آئینہ ہے۔

كُلُّ امْرِئٍ يَحْتَضِبُ بِخَبْلِيهِ

ہر آدمی اپنی رسی میں اپنے دھن جمع کرتا ہے۔

كُلُّ امْرِئٍ فِي بَيْتِهِ ضَيْئٌ

ہر آدمی اپنے گھونچ ہوتا ہے۔

كُلُّ امْرِئٍ فِي مَا يُرْمَى بِهِ

ہر شخص کوئی ایسی چیز ہے جس کا رس پر اتہام لگا جائے۔

تَمْرَةٌ مَارِدَةٌ عَزُّ الْأَبْلِجِ

مارہ نے سرکشی کی اور ابلق سخت ہو گیا۔ حصول مقصد مشکل ہو گیا۔

مَنْ مَرَّضَتْ سَرِيرَتَهُ مَأْسَتْ عِلَّابِيَتَهُ

جس کا باطن بیمار ہوگا اس کا ظاہر مر جائے گا۔

أَمْرَعَتِ الْعَجْزَاءِ

ریت کا ٹیلہ سرسبز ہو گیا۔ غیر متوقع جگہ سے مقصد حاصل ہو گیا۔

عَجْزَاءُ: رِيتٌ كَابِلُنْدِ نِيلَةٍ

أَمْرَعَتِ قَانَزِيلِ

تو نے سرسبز زمین پالی ہمیں اتر پڑ۔

كَالْمَتَمَرِّعِ فِي دَمِ الْفَتِيدِ

مقتول کے خون میں لوٹنے والے کی طرح۔

أَمْرَقِي مِنْ سَهْمٍ

تیر سے زیادہ پار ہو جانے والا۔

الْمَرْأَحُ لِقَاخِ الضَّانِ

مذاق کینہ کا حامل ہے۔ ہنسی میں گل پھنسی ہو جاتی ہے۔

الْمَتْرَاحَةُ تَذْهَبُ السَّهَابَةَ

مذاق رعب کو زائل کر دیتا ہے۔

مَنْ يَنْسُ يَرْضُ بِمَارِ كَبِ

جو شخص پیدل چلنے لگا وہ سواری پر رضامند ہو جائے گا۔

أَمْضَى مِنَ الزَّوْجِ

ہوا سے زیادہ گزر جانے والا۔

أَمْضَى مِنَ السَّيْفِ

تلوار سے زیادہ تیز گزر جانے والا۔

أَمْضَى مِنَ السَّهْمِ

تیر سے زیادہ گزر جانے والا۔

أَمْضَى مِنَ الْأَجَلِ

موت سے زیادہ نافذ ہونے والا۔

أَمْضَى مِنَ الْقَدْرِ الْمَنَاحِ

مقررہ تقدیر سے زیادہ نافذ ہونے والا۔

يَخْسِبُ الْمُنْمَطُورُ أَنْ كَلًّا مُطَوَّرٌ

بارش میں بیگیا ہوا سمجھتا ہے کہ ہر شخص بارش میں بھیگ گیا ہے۔

كُوَانِي طَرِحَ دَوْلَتٍ مَنَدٍ كَجَمَاتٍ

کونوی طرح دولت مند سمجھتا ہے۔

الْمُعِيدِي تَسْمَعُ بِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ قَرَأَهُ

معیدی کو سننا اس کو دیکھنے سے بہتر ہے۔

قَدْ يُمْكِنُ الْمُضْرُ بَعْدَ مَا رَمَحَ

کبھی چھرا سوار گرانے کے بعد اپنے اوپر قدرت دیتا ہے۔

لَيْسَ لِمَلُولٍ صَدِيقٌ

ملول کو کوئی دوست نہیں۔

مَلَكَذَا أَمْرٌ أَمْرَةٌ

کام کے لائق شخص ہی کو کام کا مالک بناؤ۔

مَا أَمَلِكُ شَذَا وَلَا إِزْحَاءَ

نہ میرے قبضے میں بائد حنا ہے اور نہ ڈھیل دینا۔ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں۔

لَا يَمْلِكُ شَرْوَى نَقْرٍ

وہ فقیر جیسی چیز کا مالک بھی نہیں۔ ایک دانہ کا بھی مالک نہیں۔

الْمِنَّةُ خِدْمُ الْمُنِيعَةِ

احسان جتنا تانگی کو ختم کر دیتا ہے۔

أَمْضَى الْجَمِيعِ أَرْضَى الْجَمِيعِ

سب نہ دینے والا سب نہ راضی کرنے والا۔

أَمْضَى مِنْ أَنْفِ الْأَسَدِ

شیر کی ناک سے زیادہ محفوظ۔

أَمْضَى مِنْ عِقَابِ الْجَوِّ

فضا کے عقاب سے زیادہ محفوظ۔

أَمْضَى مِنْ لِهَاءِ اللَّيْثِ

شیر کے تالو سے زیادہ محفوظ۔

كُلُّ مَمْنُوعٍ مَمْنُوعٌ

ہر ممنوع چیز طلب کی جاتی ہے۔

إِذَا تَمَنَيْتَ فَاسْتَكْبِرْ

جب تمنا کرے تو بہت زیادہ کر۔

رُبَّ أَمْنِيَّةٍ جَلَبَتْ مَنِيَّةً

بہت سی تمنا میں موت کو کھینچ لاتی ہیں۔

الْمَنِيَّةُ لَا ذَنِيَّةَ

موت بہتر ہے نہ ذلت۔

تَمُوتُ الْحُرَّةُ وَلَا تَأْكُلُ بِئَدْيِهَا

شریف عورت مر جاتی ہے مگر اپنے پستانوں کی کمانی نہیں کھاتی۔

الْمَوْتُ أَهْوَى مَا يَعْذُو وَأَشَدُّ مَا قَابِلُهُ

موت کے بعد کی حالت سے موت آسان ہے اور پہلے کی حالت سے موت زیادہ شدید ہے۔

هَذَا الْمَيْتُ لَا يَسَارِي هَذَا الْبَكَاءَ

یہ مردہ اتنے رونے کا مستحق نہیں ہے۔

مَا تَجَلَّبَهُ الرِّيحُ تَأْخُذُهُ الزَّوَابِعُ

وہ مال جس کو ہوا کھینچ کر لاتی ہے اس کو بگولے پکڑ لیتے ہیں۔

مَاءٌ وَلَا كَهْدَاءِ

پانی ہے مگر صداء جیسا نہیں۔

يَا مَاءَ لَوْ بَغِيْرَكَ غَصْبْتُ

اے پانی کاش تیرے سوا کسی چیز میرے پھندہ لگتا ہے۔

6

أَنْأَى مِنَ الْكُؤُوبِ

ستارہ سے بھی زیادہ دور۔

لَا تَبْنِتُ الْبَقْلَةَ إِلَّا الْخَلْفَةَ

ساگ کو کھیت ہی اگاتا ہے۔ گھنیا بات گھنیا آدمی ہی کے منہ سے نکلتی

ہے۔	بئس الکلاب لا یضرب بالمشحاب
وہ ایک ہی بنا ہوا ہے۔	کتے کا جھونکا بادل کو ضرر نہیں دیتا۔
إن النساء خبائل الشيطان	انجیز حرمًا وغد
عورتیں شیطان کا جال ہیں۔	شریف نے جو وعدہ کیا اس کو پورا کیا۔
إن النساء شقائق الأبقار	ناجزاً بناجز
عورتیں مردوں کا نصف حصہ ہیں یعنی مساوی حق کی مالک ہیں۔	نقد از نقد۔
النسید مع المسرة	ذوئہ النجم
شعر خوانی خوشی کے ساتھ ہوتی ہے۔ یعنی طبیعت خوش ہو تب ہی گایا جات ہے۔	اس سے پہنچ ہی تو ستارہ ہے۔
أنشط من ظہي مقبر	من نجاب برأسه فقد رجع
چاندنی رات والے ہرن سے زیادہ خوش۔	جو اپنا سر بچالے گیا وہ نفع میں رہا۔
إذا نصير الرأي بطل الهوى	ما انت نجية ولا سبية
جب عقل کی خواہش ہوتی ہے تو خواہش نفس ختم ہو جاتی ہے۔	نہ تو نجات یافتہ ہے نہ مقید۔
نصرة الحق شرف	نحت أثلثة
حق کی امداد کرنا شرافت و بزرگی ہے۔	اس نے اس کے جھاؤ کو چھیل ڈال۔ یعنی قلعی کھول دی۔ اثلثة: جھاؤ کا درخت۔ یہاں مراد اصل اور حسب سے ہے۔
لو أنصف الناس لانتسراح القاضي	الندم على السكوت خير من الندم على القول
اگر لوگ انصاف سے کام لیتے تو منصف کو آرام مل جاتا۔	ناموشی پر ندامت بولنے پر ندامت سے بہتر ہے۔
لا ينصف خليلكم من جهول	الندم من الكسبي
برو بار جاہل سے انتقام نہیں لیتا۔	کسی سے زیادہ نادم۔ کسی نے اپنے تیر ضائع کر لئے اور کمان توڑ دی بعد میں افسوس زدہ ہوا۔
نصف الغفل مداراة الناس	كحل النداء إذا ناديت يخذلني إلا النداء إذا ناديت يا مالي
مٹساری آدمی عقل ہے۔	ہر چیز جو میں دیتا ہوں۔ مجھے رسوا کرتی ہے بجز اس آواز کے کہ کہوں یا مالی۔
أنصح اخوك ثم ومذ	أفراع لا القرائب
تیرے بھائی نے پکایا اور پھر راکھ ملا دیا۔ کام اچھا کیا مگر پھر خراب کر دیا۔	دوڑکی عورتوں سے نکاح کرو نہ کہ اقارب کی عورتوں سے۔
عند النطاح يغلب الكيش الأحم	نزلت منه بواد غير ذي رزق
سینگ ٹکرانے کے وقت بے سیٹگ مینڈھا مغلوب ہو جائے گا۔	تو اس کے پاس بغیر بھیتی کی وادی میں اترا ہے۔ وہاں سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔
أنطق من سبحان	إذا نزل بك الشرفاء فعد
سبحان سے زیادہ خطیب۔	جب تجھ پر شر نازل ہو تو بیٹھ جا۔ یعنی شر کی طرف جلدی اور سبقت نہ کر خواہ تجھے اس کی طرف سبقت کرنے پر مجبور کیا جائے۔
من نظره في العواقب سلم من النواب	ليس غليلك نسيجه فانسحب وخبر
جو انجام پر نظر رکھے گا حادثوں سے محفوظ رہے گا۔	اس کا بننا تیرے ذمہ تو نہیں ہے لہذا کھینچ اور کھینٹ۔
من صار نعمة أكله الذئب	
سبحان سے زیادہ خطیب۔	
رب نعل شر من الخفاء	
بہت سے جوتے ننگے پاؤں ہونے سے زیادہ برے ہیں۔	

نعم كلب من بؤس أهله
کتابچے آقا کی سختی و فقر سے مونا تازہ ہو گیا۔

مثل النعامة لا طير والاجمل
شتر مرغ کی طرح نہ پرندہ ہے نہ اونٹ۔

تفصحت في غير حرم
تو ایسی چیز میں پھونک دے رہا ہے۔

ما بها نافع حرمية
مکان میں کوئی آگ پھونکنے والا بھی نہیں۔

انفذ من سهم
تیر سے زیادہ سوراخ کرنے والا۔

انفر من ظبي
برن سے زیادہ بدکنے والا۔

انفر من نعامة
شتر مرغ سے زیادہ بدکنے والا۔

انفر من بصير اذب
گھنے بالوں والا اونٹ سے زیادہ بدکنے والا۔

نفس عصام سوذت عصاما
عصام کے نفس نے عصام کو سردار بنا دیا یعنی زور بازو سے بادشاہ بن گیا۔

النفس مولة سوذت عصاما
نفس شیدا ہے جلدی حاصل ہونے والی چیز سے محبت رکھنے والا۔

النفس مولة بحب العاجل
نفس شیدا ہے جلدی حاصل ہونے والی چیز سے محبت رکھنے کا۔

النفس تعلم من اخوها النافع
نفس جانتا ہے کہ اس کا نافع بھائی کون ہے۔ کسی کی بدعت یا بدعت
کے موقع پر بولا جاتا ہے۔

من جعل نفسه عظما اكلته الكلاب
جو شخص اپنے آپ کو بڑی بناے گا اس کو کتے کھا جائیں گے۔

ما ينفع الكبد يضرب الطحال
جو چیز جگر کو فائدہ دیتی ہے وہ تلی کے لئے مضر ہے۔

لا ينفع حذر من قدر
احتیاط و تدبیر کے مقابلے میں نفع نہیں دیتی۔

ما تنفع الشغنة في الوادي الرغب
خفیف بارش و سبج وادی کو نفع نہیں پہنچاتی۔

لا ينفعك من جار سوء بوق
بر سے بڑوسی سے بچنا بے فائدہ ہے بچ نہیں سکتا۔

وما نفع السيوف بلا رجال
بغیر آدمیوں کے تلواروں کا کیا فائدہ۔

النقد عند الحافرة
نقد سبقت کے وقت ہوتا ہے۔ آگے نکلنے والے گھوڑوں کے کھروں

سے جو میدان کھدا ہے وہیں انعام کی رقم پر کھانی چاہئے۔ یعنی جلدی
ملنی چاہئے۔

النقد صابون القلب
نقد دل کا صابون ہے۔

ما نقص من مالک ما زاد في عقل
جس مال نے تیری عقل میں اضافہ کیا وہ کم نہیں ہوتا۔

من نقل اليك فقد نقل عنك
جس نے تیری طرف نقل کیا وہ تم سے نقل کرے گا۔

انقل من لي
سایہ سے زیادہ منتقل ہونے والا۔

انقي من الذمعة
آنسو سے زیادہ شفاف۔

انقي مرأة الغريبة
انجیبی عورت کے شیشے سے صاف۔

تروحه علي انقي من الراحة
میں نے اس کو تھیلی سے زیادہ صاف حالت میں چھوڑا۔

انكر من شى
شئی سے زیادہ غیر معین۔

انم من التراب
مٹی سے زیادہ چغل خور۔

انم من الصبح
صبح سے زیادہ نماز۔ رات کے پردہ میں چھپی ہوئی چیز کو فاش کر دیتی

ہے۔

من نهشته الحية حذر الراس
سانپ کا کاٹاری سے بھی ڈرتا ہے جیسے دودھ کا جلا چھانچ بھی پھونک

پھونک کر پیتا ہے۔

هل ينحس البازي بلا جناح
کیا شکر بغیر بازوؤں کے اڑ سکتا ہے؟

اپنی چنگاری پر پانی ڈالو۔ اپنی لگائی آگ کو خود ہی بجھاؤ۔
 إِذَا هَلَكَ غَيْرُ فَعِيرٍ فِي الرِّبَاطِ
 اگر ایک گدھا ہلاک ہو گیا تو اسی میں دوسرا موجود ہے۔
 إِنَّمَا هَلَكَ وَأَمَّا مَلِكٌ
 یا ہلاکت یا ملک۔ تخت یا تختہ۔
 أَهْلَكَ مَنْ تَرَاهُ السَّاسِ
 صحرا کے شاخ در شاخ راستوں سے زیادہ ہلاک کرنے والا۔
 سباسب: بق ووق صحرا۔

ٹکل ہڈی فوج
 ہر غم کشادگی کی طرف لے جاتا ہے۔ مصیبت کے بعد راحت ہے۔
 هَانَ عَلَى الْأَمْسِ فِي الدُّبُرِ
 صاف پیٹھ والے اونٹ پر وہ چند آسان ہے جس سے زخمی پیٹھ والا
 دوچار ہے۔

مَنْ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فَهُوَ عَلَى غَيْرِهِ أَهْوَنُ
 جو اپنے آپ ہلاک سمجھے گا وہ دوسرے کے لئے اور بھی زیادہ ہلاک
 ہوگا۔

من اهان ماله اكرم نفسه
 جو اپنے آپ کو ذلیل کرے گا وہ اپنے نفس کو معزز بنائے گا۔
 هَوْنٌ عَلَيْكَ وَلَا تَوَلَّعْ بِاشْتِاقٍ
 پرواہ نہ کر اور کم ہونے سے خوف نہ کر۔ جو جاتی ہے جانے دے
 آخر چھوڑتا ہے۔ اشتیاق کم ہونا یا کم کرنا۔

أَهْوَنُ مِنَ النَّبَاحِ عَلَى الشَّحَابِ
 بادلوں پر بھونکنے سے زیادہ بے قدر۔ جس کتے کی کوئی قدر کرنے
 والا نہ ہو وہ بارشوں میں بھونکتا ہے اور جب بادل دیکھتا ہے تو بھونکتا
 ہے۔

أَهْوَنُ مِنْ قَعِيسٍ عَلَى عَمْتِهِ
 اس سے بھی زیادہ بے قدر جتنا قعیس اپنی پھوپھی کے نزدیک تھا۔
 قعیس کو ذکا کا ایک شخص سردیوں میں اپنی پھوپھی سے ملنے آیا۔ مکان
 تنگ تھا۔ پھوپھی نے کتے کو اندر جگہ دی اور قعیس کو باہر سلا یا اور وہ
 سردی سے مر گیا۔

مَا أَهْوَنُ الْحَرْبِ عَلَى النَّظَارَةِ
 تماشا دیکھنے والے کے نزدیک لڑائی کتنی آسان ہے۔
 إِنَّ الْهَوَانَ لِلنِّيمِ مَرَامَةٌ
 کینے کے لئے بے عزتی مہربانی ہے۔

لَا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَاتِي مِثْلَهُ
 کسی ایسی عادت سے لوگوں کو منع مت کرو جس کو تم خود کرتے ہو۔
 النَّاسُ مُجْرَبُونَ بِأَعْمَالِهِمْ
 لوگوں کو اپنے اعمال کی جزا ملے گی۔
 النَّاسُ آتِبَاعٌ مِنْ غَلَبِ
 لوگ غالب آدمی کے تابع ہوتے ہیں۔
 النَّاسُ أَغْدَاءٌ مَا جَهِلُوا
 لوگ نامعلوم چیز کے دشمن ہوتے ہیں۔
 النَّاسُ عَبْدُ الْإِحْسَانِ
 لوگ احسان کے غلام ہیں۔
 لِكُلِّ نَاسٍ فِي بَعْضِهِمْ حَبِيرٌ
 لوگ اپنے اپنے اونٹوں کی خبر رکھتے ہیں۔ یعنی ہر قوم اپنے معاملات
 کو فیروں سے زیادہ جانتی ہے۔

استنوق الجمل
 اونٹ ناقہ بن گیا۔
 لَا نَاقِيَتِي فِي هَذَا وَلَا جَمَلٌ
 نہ اس معاملے میں میرا اونٹ ہے نہ میری ناقہ۔
 نَامِ عَصَامَ سَاعَةَ الزَّجِيلِ
 کوچ کے وقت عصام سو گیا۔
 النَّوَى أَوَّلُ الشَّجَرَةِ
 سٹھل درخت کی ابتداء ہے۔

۶

يَهْبُ مَعَ كُلِّ رَيْحٍ
 ہر ہوا کے ہمراہ جل پڑتا ہے۔ ایسے کیلئے کہتے ہیں چلو تم ادھر کو ہوا ہو
 جدھر کو۔

أَهْدَى مِنَ الْقَطَا
 قطا (چڑیا) سے زیادہ ہدایت یافتہ۔ قطا تیزی سے اپنی منزل پر
 سیدھی پہنچ جاتی ہے۔

أَهْدَى مِنَ الْيَدِ إِلَى الْقَمِ
 منہ کی طرف جانے والے ہاتھ سے زیادہ ہدایت یافتہ۔
 لَا تَهْرَفْ بِمَا لَا تَعْرِفُ
 جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کی تعریف میں مبالغہ مت کر۔
 هَرَقَ عَلِيٌّ جَمْرَكَ

واپس نہ ملے ”جو ہاتھ سے نکلا وہ پرایا“۔

بِكَلِّ وَادِ بْنِ سَعْدٍ

ہر وادی میں بنو سعد ہی ہیں۔ یعنی آوے کا آوا بگڑنا۔

لِكَلِّ وَادِ بْنِ لَعْلَبَةٍ

ہر وادی میں بنو ثعلبہ کا اثر موجود ہے۔

وَرَاكٍ أَوْ سَعِ لَكَ

تیرے پیچھے تیرے لئے زیادہ وسیع معاملہ ہے۔

مَأْوَاكٍ أَوْ رَاكٍ يَأْتِي عِضَامَ

تیرے پیچھے کیا ہے اے عصام یعنی نعمان کا کیا حال ہے جس نے مجھے اپنے پاس داخل ہونے سے روک دیا ہے یہ نابینہ عناصر کا قول ہے۔

أَوْ زِدْتَ مَا لَمْ تُضَيِّرْ

تو نے وہ چیز اتاری ہے جس کو واپس نہیں کر سکتا۔ ایسی بری بات کہی جو واپس نہیں ہو سکتی یا ایسی غلطی کی ہے جس کی سزا نہیں ہو سکتی۔

حَتَّى يَبُودَ الضَّبُّ

یہاں تک کہ گوہ پانی ہے۔ مشہور ہے کہ گوہ کبھی پانی نہیں پیتی۔

مَا هَكَذَا تُؤَرِّدُ يَا سَعْدُ الْإِبِلَ

اے سعد! اس طرح اونٹوں کو پانی نہیں پلایا جاتا۔ یعنی معاملات کو اس برے طریقے سے انجام نہیں دیا جاتا۔ مالک بن زید مناة بن حسیم نے اپنے بھائی سعد کو بے پروائی سے اونٹوں کو پانی پلانے پر تنبیہ کرتے ہوئے کہا تھا۔

هَذَا وَلَمَا تَرَدُّ تَهَامَةَ

یہ گھبراہٹ حالانکہ مکہ ابھی دور ہے۔

مَوْرِدُ الْجَهْلِ وَلَيْلَى الْمَنْهَلِ

جہالت کا گھاٹ ناخوشگوار پانی پینے کی جگہ۔

وَأَبْطَةُ الْقَلَادَةِ

ہار میں سب سے بڑا دانہ۔

أَوْ سَغْتُمْ سَبًا وَأَوْذُو بِالْإِبِلِ

گالیاں تو بہت کھل کر دیں حالانکہ وہ اونٹوں کو لے ہی گئے۔

إِتْسَعِ الْمَخْرُوقُ عَلَى الرَّاقِ

پھین جوڑنے والے پر وسیع ہو گئی۔ فساد اتنا بڑھ گیا کہ اصلاح کا موقع جاتا رہا۔

فِي سَبْعَةِ الْأَخْلَاقِ كُنُوزُ الْأَرْزَاقِ

وسعت اخلاق میں رزق کے خزانے ہیں۔ خوش اخلاق بھوکا نہیں

إِنَّ الْهُوَى مِنَ النَّوَى

محبت دوری سے ہوتی ہے۔

إِنَّ الْهُوَى شَرِيكُ الْعَمَى

محبت اندھے پن کی طرح ہے۔

إِنَّ الْهُوَى الْهُوَانُ

محبت ذلت کا نام ہے اس راہ میں ذلتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔

مَنْ هَابَ خَابَ

جو ڈر گیا سو مر گیا۔

مَنْ هَابَ الرِّجَالُ تَهَيَّبُوهُ

جو لوگوں سے ڈرے گا لوگ اس کو ڈرائیں گے۔

و

لَوْ لَا الْوَيْتَامُ لَهَلَكَ الْإِنَامُ

اگر چہ موافقت نہ ہوتی تو لوگ ہلاک ہو جاتے۔

وَجُعَ سَاعَةٌ وَلَا تَكُلْ سَاعَةً

ایک گھڑی کی تکلیف نہ کر ہر گھڑی کی۔

لَمْ أَجِدْ لَشَفْرَةَ مَحْزُوطٍ

میں نے چہرے کے لئے کانٹے کی جگہ نہ پائی۔

فَلْيُؤَجِدْ فِي النَّهْرِ مَا لَا يُؤَجِدُ فِي الْبَحْرِ

کبھی نہر میں وہ چیز مل جاتی ہے جو سمندر میں نہیں ملتی۔

الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ السُّوءِ

برے ہم نشین سے تمہاری بہتر ہے۔

وَحَمِيٌّ بِلَا حَيْلٍ

حاصل کے بغیر مختلف اشیاء کی خواہش کرنے والی۔

ذَعُ عَنْكَ بَنِيَاتِ الطَّرِيقِ

شاخ در شاخ راستوں کو چھوڑ کر۔

ذَعُ الْعَوْرَاءَ نَخْطَاكُ

بری چیز کو چھوڑ دو تم سے تجاوز کر جائے گی۔

ذَعُ الْقَطَايِنِمَّ وَشَرَّ يَغْيَبِزٍ

قطا کو سو جانے دو اور شر کو گزر جانے دو۔

ذَاعَ اللَّؤْمُ إِنَّ اللَّؤْمَ غَيْنُ النَّوَابِ

ملامت چھوڑو ملامت کرنا مصائب کا معین و مددگار ہے۔

وَذَعَّ مَا لَا مَوْدَعَهُ

مال کو اس کے ودیعت رکھنے والے ہی نے چھوڑ دیا۔ ممکن ہے وہ

جو غیر کے تو شے پر بھروسہ کرے گا اس کی بھوک طویل ہوگی۔

لَا تَلِدُ الذَّنْبُ إِلَّا ذَنْبًا

بھینٹن بھینٹریا ہی جنے گی۔ بھینٹریے کا بچہ بھینٹریا ہی ہوتا ہے۔

هَلْ تَلِدُ الْحَيَّةُ إِلَّا الْحَيَّةَ

کیا سانپیں سانپ کے علاوہ کو بچدے سکتی ہے۔

ذَلَّ حَارِثًا مِنْ قَوْلِي فَأَرْهَأَ

معاملہ کا گرم حال کو بھی اس کے سپرد کر دو جو سرد حال کا ماہر ہے۔

أَوْهَنْ مِنْ بَيْتِ الْعَنْكَبُوتِ

کڑی کے جالے سے زیادہ کمزور۔

عندك وَهْيٌ فَأَوْقَعِيهِ

تیرے پاس بھی پھنسا ہوا ہے پہلے اس کو پوند لگا۔ ”پہلے اپنے بچے کو

سیو“ یعنی اپنے عیوب کو دیکھو۔

وَيُنْبَلُ لِلْحُسُودِ مَنْ حَسَدَهُ

حاسد پر اس کے حسد کی وجہ سے ہی ہلاکت آتی ہے۔

وَيَلُ لِّلرَّاسِ مِنَ اللِّسَانِ

سر کی ہلاکت زبان کے سبب سے ہوتی ہے۔ زبان درازی کی وجہ

سے سر چھوٹتے ہیں۔

وَيَلُ لِلْبَيْتِجِيِّ مِنَ المَخْلِيِّ

گھمکن کے لئے بے غم لوگوں کی وجہ سے مصیبت ہے۔

وَيُنْبَلُ لِعَالِمٍ مِنْ جَاهِلِهِ

نہ جاننے والے کے مقابلے میں جاننے والے کی مصیبت ہے۔

وَيُنْبَلُ أَهْوُونِ مِنْ وَيُنْبَلِينَ

ایک شہر دو شہروں سے زیادہ آسان ہے۔

س

أَيُّسُ مِنْ غَرِيبِ

ڈوبنے والے سے زیادہ ناامید۔

يَذُ الْحَرَّ مِيزَانَ

شریف کا ہاتھ ترازو ہے۔

يَذُ تَشْجُ وَأَخْرَبِي مِنْكَ فَاَسْؤُنِي

تیرا ایک ہاتھ زخمی کرتا ہے اور دوسرا مرہم لگاتا ہے۔

وَمَا مِنْ يَدٍ إِلَّا يَدُ اللَّهِ فَوْقَهَا

کوئی ہاتھ ایسا نہیں جس کے اوپر خدا کا ہاتھ نہ ہو۔

يَذُكَ مِنْكَ وَإِنْ كَانَتْ سَلَاءً

رہتا۔

كُنْ وَجِي نَفْسِكَ

اپنے نفس کا وحی بن کر۔

إِنَّ الْمَوْصِينَ بِنَوْ سَهْوَانِ

وصیت کے لئے ہونے لوگ آدم کی اولاد ہیں۔

أَيْنَ يَضَعُ الْمَخْتُوقُ يَدَهُ

گلا گھونٹا ہوا اپنا ہاتھ کہاں رکھے۔

صَنَعَ الْفَاسَ فِي الرَّاسِ

تیشہ کو سر میں رکھ دے۔ موقع کو قیمت سمجھو اور اپنا کام جلد پورا کر لو۔

وَعَذُّ الْكَرِيمِ ذَنْبِ

سختی کا وعدہ قرض ہے۔

وَعَذُّ بِلَا وَفَاءٍ عِلَاوَةٌ بِلَا سَبَبِ

وعدہ پورا نہ کرنا بلا وجہ کی دشمنی مول لینا ہے۔

الْبَعْدَةُ عَطِيَّةٌ

وعدہ عطیہ کی طرح ہے۔

مَوَاعِيدُ عَزْفُوبِ

عزفوب کے وعدے۔

وَالْفَقُّ شَرٌّ طَبَقَهُ أَوْ طَبَقَهُ

چڑے کا ظرف اپنے غلاف کا موافق بن گیا۔

إِنْ لَمْ يَكُنْ وَفَاقَ فَفَرَّاقِ

موافقت نہ ہو تو چدائی بہتر ہے۔

أَوْ هِيَ مِنَ السَّمُولِ

سمول سے زیادہ وفادار۔

لَا تَنْقَضُ الْبَحْرُ إِلَّا سَابِحًا

دریا میں اس وقت کو دو جب تیرنا جانتے ہو۔

وَقَفَّ تَحْتَ الْمِيزَابِ وَفَرَّ مِنَ الْمَطَرِ

بارش سے بھاگا پر نالہ کے نیچے جا کھڑا ہوا۔

إِتَّقِ شَرَّ مَنْ أَحْسَنَتْ إِلَيْهِ

احسان کیا ہوا اس کے شر سے بھی بچو۔

سَمِينٌ كَلْبِكٌ يَأْكُلُ

اپنے کتے کو مونا کر وہ تمہیں کھائے گا۔

قَدْ يَتَوَتَّى السَّيْفِ وَهُوَ مُغْمَدٌ

کبھی میان میں ہوتے ہوئے بھی کھوار سے خوف کیا جاتا ہے۔

مَنْ أَتَكَلَّ عَلَيَّ زَادَ غَيْرَهُ طَالَ جُوعُهُ

تیرا ہاتھ تیرا ہی ہے اگرچہ وہ بیکار ہو چکا ہے۔

بیدبی لا بیدبیک عمرو

اپنے ہاتھ سے تیرے ہاتھوں نہیں اے عمرو۔

هُنَّ عَلَيْهِ يَدٌ وَاحِدَةٌ

وہ سب اس پر تعلق ہیں۔

هُوَ عِنْدِي بِالْحِمَنِ

وہ میرے نزدیک مہارگ اور شریف مرتبہ ہے۔

اس کی میرے ہاں بڑی قدر و منزلت ہے

يَوْمُ السُّرُورِ قَصِيرٌ

خوشی کا دن چھوٹا ہوتا ہے۔

يَوْمٌ خَمْرٌ وَغَدًا امْرٌ

آج شراب ہے تو کل ایک اہم معاملہ۔

اليوم سلام و غدا تكلّم

آج سلام کل کلام ہوگا۔

مَا يَوْمٌ حَلِيمَةٌ بَسِيرٌ

یوم حلیمہ کوئی پوشیدہ نہیں۔

إِنَّ مِنَ الْيَوْمِ آخِرَهُ

یقیناً دن کا آخری حصہ اسی دن کا حصہ ہے۔

إِنَّ مَعَ الْيَوْمِ غَدًا يَا مُسْعِدَةٌ

اے مسعدۃ آج کے ساتھ آنے والی کل بھی ہے۔

الف

ابروہ: ابروہ دوانیہ: بکشن۔

آبریل: نابو اپریل۔

ابریق: بک لوٹا۔

ابریق النشای: چائے دان۔

ابن: تابینی: تعزیراتی۔

حفلة التابین: ماتمی جلسہ۔

الث: اثاث: فرنیچر، گھریلو سامان، اثاثات۔

اث: فرنیچر لگانا، سامان سے آراستہ کرنا۔

اشروہ: آسروی: آثار قدیمہ سے متعلق ماہر آثار۔

قدیر۔

ماتوہ: کارنامہ (ج) ماتوہ۔

انیور: انیور ایک بے وزن لطیف مادہ۔

انم: انیم: بزم بجز ماند۔

اجروہ: اجروہ: کرایہ، اجور۔

اجرة النقل: محصول ٹرانسپورٹ۔

اجل: اجل: اجلا: ملتوی ہونا۔

اجل: تاجیلا: ملتوی کرنا۔

تاجیل: التواء۔

احد: اکائی (ج) آحاد۔

أخذیة: اکائی سے متعلق۔

اخذہ: اخذ: مسکورنگ، نگین، جاذب۔

اخروہ: اخروہ: تاخیر الٹ کرنا، پیچھے کرنا۔

کرنا۔

تاسخو: گھڑی کا پیچھے ہونا، الٹ ہونا، ملک و قوم کا

پسماندہ ہونا۔

مؤخو: پیچھے دنوں، کچھ عرصہ قبل۔

اخیر: آخر: حال ہی میں، اخیر میں۔

متأخرات: باقیاجات، حساب۔

ادب: آداب: علوم و معارف، لٹریچر۔

مأذبة: حیاض، دعوت، طعام (ج) مآذب۔

ادی: آذات: (ج) آذوات: بکل پڑے۔

آذوات: الکتابة: اسٹیشنری۔

آذوات: متعلقہ سامان، مواد، لوازم، میٹریل۔

آذو: پرمٹ، لائسنس، اجازت نامہ، پاس۔

آذو: توبید: پولش آرڈر۔

آذو: ضرور: پاس۔

آذو: سنگل ریلوے سنگل۔

مأذون: سند یافتہ، اجازت یافتہ۔

المأذون: علوم عالیہ کی سند، قانون کی سند۔

ڈگری۔

ارد: اردواز: سلیٹ۔

قلم: اردواز: سلیٹ۔ پنسل۔

ارم: ارسطو اراطیہ: معزز اور شریف لوگوں کا

طبقات ارسطو اراطی۔

ازق: مسازق: نازک صورت حال، خطرناک

پوزیشن۔

ارض: ارضیہ: فرش، زمین، ہر وہ جگہ جس پر چہرہ

رکھے جاسکیں۔

أرضیة الصورة: بیک گراؤ، نڈ، پس منظر۔

ازم: ازمہ: کراس، بحران (ج) ازما۔

ازمة اقتصادیة: مالی بحران۔

ازمة سیاسیة: سیاسی بحران۔

تسأزم: بحران کا شکار ہونا، معاملات کا نازک

صورت اختیار کرنا۔

اس: انسانی: بنیادی۔

تأسسی: بنیادی۔

مجلس تأسسی: مجلس قانون ساز۔

مؤسسة: سیاسی، تجارتی، علمی اور دفائی ادارہ، ج

مؤسسات۔

اسب: اسبیرین: اسپرو۔

است: استودیو: اسٹوڈیو، تصویر کشی یا فلم سازی

کا مقام۔

اسر: اسرورہ: بنگلی، پائپ۔

اسط: اسطرنائٹ: (گراموفون) کا ریکارڈ

(ج) اسطوانات۔

(۲) اخبار کا کالم۔

أسفطت: ڈامر۔

أسفطلة: اسٹول۔

أسفنت: سینٹ۔

اسی: آسیا: ایشیا۔

آسیا الصغری: ایشیا کوچک۔

آسیوی: ایشیائی۔

مساسة: فریڈی، المناک حادثہ (ج) مساء

سی۔

اطر: اطار: فریم (ج) اطر۔

اطر: فیز: کارنس (ج) اطاریز۔

افق: افق: جہان مدیدہ، سیاح۔

أفقی: مسطح، چپا، افقی سمت کا۔

آفندی: مسز صاحب۔

اقلم: اقلیم: ملک، صوبہ، علاقہ۔

اخذ تاخذنا: یقین دلانا، توثیق کرنا۔

الی: آلہ: مشین، اوزار، ڈریس (ج) آلات۔

آلة مؤخر: آئینہ۔

آلة الخیاطة: سنی کی مشین۔

آلة التصوير: کیمرہ۔

آلة كتابة: ٹائپ رائٹر۔

الای: رجعت، فوج کی ایک جماعت۔

الف: فالسفا: جماعت یا وزارت وغیرہ کی تشکیل

کرنا۔

امب: امپریال: امپریلزم۔

امبراطور: امپیر، شہنشاہ، والی۔

امبراطورة: ملکہ، امپریس۔

امبراطوریہ: شہنشاہیت۔

امره: امارہ: ریاست، انیسٹ۔

امیر: حاکم، صدر، منیج، شاہزادہ۔

امیر: الامی: کرنل، ایک فوجی رجمنٹ کا اعلیٰ

افسر۔

امیرال: افسر جہازات، افسر بحریہ۔

امیر اللواء: بریگیڈ میجر جنرل۔

امیری: سرکاری، ریاستی، شاہی۔

استمارہ: سادہ فارم۔

مؤامرة: سازش۔

مامور: ماتحت، محکوم، ملازم۔

ماموریة: بہم مشن، ڈیوٹی۔

مؤتمر: کانفرنس، کنونشن، مشاورتی اجتماع

(ج) مؤتمرات۔

امم: امة: قوم، عوام، نیک۔

أمم: تامیمًا: قومیت، قومی ملکیت میں لینا۔

أممی: بین الاقوامی، انٹرنیشنل۔

امن: امن علی الحیاء: زندگی کا بیدہ کرنا۔

فروش۔	ایطالیا: ملک اٹلی۔	تأمین: بیمہ ضمانت (ج) تاہمیتات۔
بَدَالَةُ السِّلْفُون: ٹیلی فون الیکٹریک (ج)	ایلول: رومی مہینہ مطابق ستمبر۔	تأمین علی الحیاة: لائف انشورنس۔
بَدَالَات۔	ایالہ: صوبہ (ترکی لفظ)	أمانة: ثقافت معتدی۔
تَبَادُل و مَبَادِلَة: تجارتی لین دین۔	ب	امین: ناظم سیکرٹری الامیرین خزانچی ج
بَدَلَةُ ثياب: کپڑوں کا جوڑا سوٹ۔	ہائالوجیا: علم الطالع علم ترکیب ادویہ۔	امناء۔
بذلة سہرة: شام کا لباس۔	ہار نامچ: ہونامچ: پروگرام فہرست۔	امی: امیر کا: امریکہ۔
بذلة و سُمیئة: سرکاری وردی۔	ہاروینو: ہیروینو آلہ ہارپنا۔	تأمیرک: امریکی باشندگی اختیار کرنا۔
ہوہ: ہوا: لائسنس صفائی چھکارا خلاصی۔	ہارلیمان: ہارلیمان: پارلیمنٹ۔	السب: انہاشی: کارپورل دس فوجی سپاہیوں کا
ہوئی: بیرونی۔	ہاروود: ہندوق۔	انفر۔
ہو تھال: پرتگال۔	ہاشکیر: تولیہ (دارجہ)	أنبویة: پانپ (ج) انابیب۔
ہوہ: ہوا: فز۔	ہا صا: بس (ج) ہا صا ت۔	انٹ: انٹیوئی: زنانہ نسوانی۔
ہو اذ الشای: چاء دان ٹی پاٹ۔	ہالووع: گندنا مالہ گندی تالی۔	أنونة: نسوانیت زنانہ پن۔
ہو اذة: ریفریجر خنڈا کرنے کی مشین (ج)	ہالون: غبارہ (مع)	انج: انجلیز: انگریز۔
ہو اذات۔	ہناسا: پناس (مع)	انسس: انسا: مس نوجوان خاتون (ج)
ہو اذیة: کولر خنڈا کرنے کا بکس۔	ہسحٹ: تحقیق مطالعہ ریسرچ (ج) انہحاث	آنسات۔
ہو وودہ و ہاروودہ: ہندوق۔	ہسحوت: باحث و بحالہ: محقق۔	انف: استیناف: مقدمہ کی اپیل مستأنف: اپیل
ہوید: ڈاک (۲) پوسٹ مین۔	ہسحٹ: موضوع تحقیق و مطالعہ (ج) ہسحٹ۔	کنندہ۔
ہوید عادی: معمولی ڈاک۔	ہسحر: ہسحارہ: جہاز رانی کشتی رانی ملاحی	انسم: انموذج: نمودج: نمونہ طرز ماڈل (ج)
ہوید مستعجل: ایکسپریس ڈاک۔	ہسندرری سترکی مہارت۔	نماذج۔
ہویدئی: ڈاک سے متعلق۔	ہسحرئی و ہسحارہ و ہسحار: ملاح جہاز ران۔	انی: انانہ: میرا انتظار۔
ہوواد: ڈاک بھیجنا۔	ہسحرئیة: بحرئی طاقت نیوی۔	اہل: اہلیئی: خانگی ملکی شہری۔
ہو و تیسرہ: جاز قراردینا سبکدوش کرنا بری	ہسحیرة: جھیل۔	موہلات: علمی لیاقت صلاحیت کوالیفیکیشن۔
کرنا۔	ہسح: ہسحیخہ: پیکاری سرنج ہسحیخہ زشاشہ:	اھالی: باشندگان عوام۔
ہسوز: ہسوز جواز (ج) ہسوزات الایسوز:	آپاش۔	اوت: اوٹمبیل: موٹر کار۔
تا قابل ٹھو۔	ہسحر: ہسحار: بھاپ اٹھیم گیس۔	اور: اوردطہ: ٹائین ایک ہزار سپاہیوں کی
ہوش: پائیدان۔	ہسحیرة: سمندری جہاز اسٹیم (ج) ہوا سحر۔	جماعت۔
ہوشوتی: ہیراشوٹ۔	ہسح: ہسحارہ: قاعدہ اصل بنیاد (ج) مبادی۔	اوردنیک: سادہ فارم۔
ہوشطہ: رشوت دینا۔	ہسحئی: بنیادی اصولی قانونی۔	اوراق: کاغذات پرچے۔
ہوشطل: رشوت لینا۔	ہسحئیة: اصولی طور پر بنیادی طور پر۔	اوراق الصعین: کاغذات نامزدگی۔
ہوشطہ: چھتری۔	ہسح: استبداد: مطلق العنان ہونا۔ خودمختار خود	اوربا: یورپ۔
ہوسع: ہوسع بالممال: چندہ دینا۔ تبرع: چندہ	رائے ہونا۔	اوردئی: یورپین یورپ کا۔
ہوسع: (ج) تبرعات: ہسح: چندہ دہندہ۔	ہسحل: ہسحل الاشسوراک: رسالہ یا اخبار کا	اوق: اوقیة: اونس مسادی ۱۲/۱ پونڈ۔
ہوق: ہوقیة: تار ٹیلی گرام۔	چندہ۔	اوضا: کمرہ (ج) اوضات۔
ہوراق: تار دینا۔	بذلة ثياب: سوٹ کپڑوں کا جوڑا (ج)	اومشاشی: دفعہ دار فوج کا ایک چھوٹا عہدہ دار
ہوکار: پرکار۔	بذلات۔	جس کے تحت دس سپاہی ہوتے ہیں۔
ہورلیمان: پارلیمنٹ۔	بذال: (۱) صرف سکتہ تبدیل کرنے والا (۲)	ایوان: ہال لابی پبلک ہال محل۔
ہونامچ: پروگرام فہرست۔	اشیائے خوردنی خوردت کرنے والا۔ پرچون	ایار: رومی مہینہ مطابق مئی۔

تولستو: ناسائی۔	جسٹس العَضْو: حصہ جسم پر پلاسٹر چڑھانا۔	ماکھ مٹکوانے والا۔
تیار: کرتے ہوا کا جھونکا بہاؤ دھارا حالات کا رخ (وج) تبادلات۔	جِبْہۃ: محاذ جنگ وغیرہ (ج) جِبْہات۔	جَلْسۃ: نشست 'مینگ۔
تیسود: تانقید۔	جسی: جسی اموال و لضرائب۔ جیبہ: وصول کرنا (ٹیکس وغیرہ)	"قَضائیۃ: سیشن عدالتی اجلاس۔
تاری: انتقالی۔	جاب ج۔ جِبْہۃ: مُحصِل: وصول کنندہ۔	مَجْلِس: نشست گاہ 'سینٹر بیٹل' کچہری۔
تبت: حجت و دلیل ثبوت۔	جَدْوَل: چھوٹی نہر 'گول نمبرست' چارٹ 'نقشہ کالم (ج) جداول۔	مَجْلِس الادارۃ: مجلس انتظامیہ۔
تسات: غیر منقول غیر متحرک ظاہر تسلیم شدہ مستقل مزاج، مستقل۔	جدول الاعمال: ایجنڈا۔	"الاعیان: دارالامراء۔
تسات و تہبیت: عارضی ملازم کو مستقل کرنا برقرار رکھنا۔	"الضرب: پہاڑا۔	"النواب: پارلیمنٹ۔
تقب: تقاب، ثقبوب: دیاسلائی۔	جدعی: بنیادی۔	مَجْلِس المدیونۃ: ڈسٹرکٹ بورڈ۔
تقف: ثقافہ: کلچر، تعلیم تہذیب۔	جوام: گرام (مع)	مَجْلِس اقلیتی: صوبائی کونسل۔
تقافی: کلچر، تعلیمی تہذیبی۔	جوزخار: راکٹ۔	"بلدی: میونسپل کونسل۔
تتقیف: ذہنی تربیت دینا مہذب بنانا تعلیم یافتہ بنانا۔	جوزاح: سرجن 'سرجری کا طبیب۔	"تشریحی: مجلس متفقہ۔
تتقف: تعلیم یافتہ مہذب۔	جوزاحیۃ: سرجری۔	"عشگری: فوجی عدالت۔
تقل نوعی: (سائنس میں) کثافت نوی۔	جوزاحیۃ: سرجری آپریشن۔	"یابی: پارلیمنٹ۔
تکتف: فوجی بارک پولیس کا مرکز (ج) نکسبات۔	جریدۃ: اخبار نیوز پیپر (ج) جزالد۔	جلجل: جلالہ و صاحب جلالہ: بادشاہ کا اعزازی لقب ہر مجتبیٰ۔
تثلث: ثلاثی: سرکنی 'نفری' 'اجزائی' 'حرنی۔	تجریدۃ: فوجی دست 'فوجی عملہ۔	مَجْلۃ: رسالہ 'مگزین (ج) مَجْلات۔
تلج: تلجعی: برفانی برف سا۔	متجزد الاسفار: دانٹوں کا برش۔	جلو: جلاء: اختلاء، انکشاف۔
تلانڈ: آنس بکس برف رکھنے کا صندوق (ج) تلانجات۔	جوز: جزاۃ: آلہ برقی (ج) جزوات۔	جالیۃ: پردیسی جماعت (ج) جالیات۔
تلانجۃ: ریفریجریٹر ٹھنڈا کرنے کی مشین۔	جری: اجراء قانونی: ضابطہ کی کارروائی۔	مَجْمُوع: خانہ جنگی (ج) جیمارک: کسم ہاؤس۔
تلسر: تلسر سائلہ تسمیرا: مال میں اضافہ کرنا کاروبار میں لگانا۔	اجراء قضائی: عدالتی کارروائی۔	مَجْمَع الحروف: کپوز کرنا۔
تلی: تلی: ڈبل دوہرا دورگی۔	اجراء ات: کارروائی۔	جمعیۃ: سوسائٹی 'انجمن' ایسوسی ایشن۔
تانوی: دوسرے درجہ کا سیکندری۔	مجرعی: دوڑ رمار ز دھارا گزر گاہ رخ۔	مَجْمُعۃ حیریۃ: فلاجی انجمن 'ولیفیر سوسائٹی۔
استثنائی: خصوصی ہنگامی۔	جزء: پرزہ (ج) اجزاء۔	مَجْمُعۃ عمومۃ: جنرل اسمبلی۔
توۃ: جوش 'عبادت' انقلاب۔	اجزائی: یکسٹ دو فروش۔	مَجْمَعی: اجتماعی 'جماعتی' مشترکہ۔
توری: انقلابی شورش پسند۔	اجزائیۃ: فارمی دو اٹھانہ۔	مَجْمَعۃ الکھرباء: خزانہ بجلی۔
تایر: ہائی 'انقلابی' فوج۔	جزوۃ: پیسے کی ٹینو۔	جامع الحروف: کپوزیٹر۔
جاوش: سار جنت ایک فوجی عہدہ۔	جزوۃ: یوٹ جوتا (۱)	جامعۃ: یونیورسٹی 'لیگ۔
جس: پلاسٹر کا مصالحہ کھریا۔	جزو سانی: جوتا بنانے والے یا مرمت کرنے والا۔	اجتماعی: معاشرتی 'سوشل' عمرانی۔
	جزاء نقدی: جرمانہ۔	مَجْمَع: سوسائٹی 'معاشرہ' سماج (ج) مَجتمعات۔
	جزائی: تعزیری 'قابل سزا۔	مَجْمَع: کنونشن 'اجتماع' علمی۔
	جعل: مزدوری 'حق محنت' کمیشن۔	مَجْمَع علمی: اکیڈمی 'لٹریری ادارہ۔
	جغفر: خطیہ رسم الخط۔	مَجْمَع: دائمی جلسہ۔
	جلب و استجلاب: باہر سے مال منگانا۔	مَجْمَع: ہول بیل 'خلاصہ' یہ کہ۔
	جلبۃ: واٹر ڈولیکیوں کو جوڑنے والا چھلا۔	تاجوز الجملۃ: تھوک فروش۔
	جتلاب و جتالب: ایپوزٹیر وئی ممالک سے	جئح: جناح: عمارت کا حصہ۔

جند تجنیداً: فوج میں بھرتی کرنا۔	جنوالة: موٹر سائیکل۔	جند تجنیداً: فوج میں بھرتی کرنا۔	جنوالة: موٹر سائیکل۔
تجنیداً: اجباری، لازمی بھرتی۔	مجال: میدان کار، گنجائش، موقع (ج) مجالات۔	تجنیداً: اجباری، لازمی بھرتی۔	مجال: میدان کار، گنجائش، موقع (ج) مجالات۔
جنسہ: تجنیسا: حقوق قومیت عطا کرنا کسی ملک کی پیشگی دینا، ملکی بنانا۔	جنو: فضا، ماحول، آب و ہوا۔	جنسہ: تجنیسا: حقوق قومیت عطا کرنا کسی ملک کی پیشگی دینا، ملکی بنانا۔	جنو: فضا، ماحول، آب و ہوا۔
جنسیت: قومیت، پیشگی، ملکی حقوق۔	جنوی: فضائی، ہوائی، خلائی۔	جنسیت: قومیت، پیشگی، ملکی حقوق۔	جنوی: فضائی، ہوائی، خلائی۔
تجناس: ہم قوم ہونا۔	انجوائی: ماہر موسیقات۔	تجناس: ہم قوم ہونا۔	انجوائی: ماہر موسیقات۔
جنین: جنینۃ الحیوان: چڑیا گھر۔	جنولوجیا: علم طبقات الارض۔	جنین: جنینۃ الحیوان: چڑیا گھر۔	جنولوجیا: علم طبقات الارض۔
جنسی: جنسہ: اثرنی، معنی برابر تقریباً یکساں روپ یا گیارہ مثلث، اگر بڑی پاؤں میں مثلث۔	جنس احتیاطی: حوالات۔	جنسی: جنسہ: اثرنی، معنی برابر تقریباً یکساں روپ یا گیارہ مثلث، اگر بڑی پاؤں میں مثلث۔	جنس احتیاطی: حوالات۔
جوہری: بنیادی، اصلی، ضروری زیورات یعنی والا۔	جنس: ثنوی (ج) محاسب۔	جوہری: بنیادی، اصلی، ضروری زیورات یعنی والا۔	جنس: ثنوی (ج) محاسب۔
مجوہرات: زیورات۔	خبکہ الروایۃ: ناول کا پلٹ خاکہ۔	مجوہرات: زیورات۔	خبکہ الروایۃ: ناول کا پلٹ خاکہ۔
جہر: منجھر و منجھار: بھونچا، نیکر و فون لاؤڈ اسپیکر۔	حجب: جعباب: پردہ پارٹیشن۔	جہر: منجھر و منجھار: بھونچا، نیکر و فون لاؤڈ اسپیکر۔	حجب: جعباب: پردہ پارٹیشن۔
منجھر: نائیکر و سکوپ، خوردبین۔	حجز: خجنز: ریزرو کرنا، محفوظ کرنا۔	منجھر: نائیکر و سکوپ، خوردبین۔	حجز: خجنز: ریزرو کرنا، محفوظ کرنا۔
جھیز: جھیز: تیار کرنا، سامان یا زائرہ سے لیس کرنا۔	حجاز: رکاوٹ پارٹیشن، دیوار (ج) حواجز۔	جھیز: جھیز: تیار کرنا، سامان یا زائرہ سے لیس کرنا۔	حجاز: رکاوٹ پارٹیشن، دیوار (ج) حواجز۔
جهاز: نظام، سسٹم، نظام ترکیبی (ج) آجھڑہ۔	حذت: واقعہ، بدعت، نوعمر۔	جهاز: نظام، سسٹم، نظام ترکیبی (ج) آجھڑہ۔	حذت: واقعہ، بدعت، نوعمر۔
جاہز: تیار، آراستہ۔ لیس۔	حدیث: بات، کلام، گفتگو، کہانی، روایت، حکایت، خبر، مضمون۔	جاہز: تیار، آراستہ۔ لیس۔	حدیث: بات، کلام، گفتگو، کہانی، روایت، حکایت، خبر، مضمون۔
جنواب: سیاح۔	حدو: تحدیداً: حد بندی کرنا، کنٹرول کرنا، محصور کرنا۔	جنواب: سیاح۔	حدو: تحدیداً: حد بندی کرنا، کنٹرول کرنا، محصور کرنا۔
منجوب: شیخ، سوراخ کرنے کا آلہ۔	تحدید النسل: ضبط ولادت۔	منجوب: شیخ، سوراخ کرنے کا آلہ۔	تحدید النسل: ضبط ولادت۔
جنوت: پت سن، سنی جس کی بوریوں وغیرہ بنائی جاتی ہیں۔	حدیق: حدیقۃ غصومیۃ: باغ عام پبلک گارڈن۔	جنوت: پت سن، سنی جس کی بوریوں وغیرہ بنائی جاتی ہیں۔	حدیق: حدیقۃ غصومیۃ: باغ عام پبلک گارڈن۔
جوز: جہاز الامتحان۔ جوڑا: امتحان پاس کرنا۔	حدل: حدلاً: ہموار کرنا، رول پیپر بنا۔	جوز: جہاز الامتحان۔ جوڑا: امتحان پاس کرنا۔	حدل: حدلاً: ہموار کرنا، رول پیپر بنا۔
اجازہ: سند دینا، رخصت دینا۔	مخدلة: رولز وہ گول پیپر جس کے ذریعہ زمین ہموار کی جائے۔	اجازہ: سند دینا، رخصت دینا۔	مخدلة: رولز وہ گول پیپر جس کے ذریعہ زمین ہموار کی جائے۔
اجازۃ: سند رخصت۔	مخدلة بخاریۃ: انیم رولز سڑک کوٹنے کا اہلن۔	اجازۃ: سند رخصت۔	مخدلة بخاریۃ: انیم رولز سڑک کوٹنے کا اہلن۔
مجاز: سندیات، فاضل۔	خیز: جھٹا، چوکنہ۔	مجاز: سندیات، فاضل۔	خیز: جھٹا، چوکنہ۔
جواز و اجازۃ: پرمت، لائسنس۔	محلور: قابل احتیاط۔	جواز و اجازۃ: پرمت، لائسنس۔	محلور: قابل احتیاط۔
جواز السفر: پاسپورٹ، پروانہ، رہداری (ج) جوازات۔	خونیۃ: جھگ، جگ۔	جواز السفر: پاسپورٹ، پروانہ، رہداری (ج) جوازات۔	خونیۃ: جھگ، جگ۔
جاز: (مع) گیس (ج) جوازات۔	خواب: سنگین بردار، نیرہ بردار۔	جاز: (مع) گیس (ج) جوازات۔	خواب: سنگین بردار، نیرہ بردار۔
جائزۃ: انعام (ج) جوائفو۔	مخاربت: جنگجو، لڑاکا، سپاہی۔	جائزۃ: انعام (ج) جوائفو۔	مخاربت: جنگجو، لڑاکا، سپاہی۔
جول: جوال، سیاح، گشت کنندہ، پھیری لگانے والا۔	خوت: مہجرات، ہجاری، ٹریکٹر۔	جول: جوال، سیاح، گشت کنندہ، پھیری لگانے والا۔	خوت: مہجرات، ہجاری، ٹریکٹر۔
جولۃ: گشت، پھیری، دورہ۔	خواج: بیلام۔	جولۃ: گشت، پھیری، دورہ۔	خواج: بیلام۔
	خوردہ: خوردہ، آزاد کرنا، ایڈیٹ کرنا۔		خوردہ: خوردہ، آزاد کرنا، ایڈیٹ کرنا۔
	تجویری: آزادی سے متعلق ادارت سے متعلق تصنیف سے متعلق۔		تجویری: آزادی سے متعلق ادارت سے متعلق تصنیف سے متعلق۔

مخورد: آؤیٹر، مصنف، رائٹر۔
 حواس: حواس، گارڈ، حفاظتی دست۔
 حواس شخصی: ہاؤس گارڈ۔
 حواسۃ: پہرہ، عدالتی پہرہ، ضبطی۔
 حوش: حواس، فساد انگیزی کرنا۔
 حوض: حوض، اشتعال انگیز۔
 حوز: قطعہ، او حدیدی، نائپ۔
 حروف: حرف، ہر حرف۔
 حوق: حوق، آتش زدگی (ج) حوالق۔
 حوزک: تحریک (ج) حرکات۔
 حوزکۃ المورود: ٹریفک آڈورٹ۔
 محوزک: موٹر یا مشین جس کے ذریعہ آلات حرکت کرتے ہیں۔
 حوزمۃ: تقدیس عدم جواز، عورت۔
 حوزمۃ الوجیل: بیوی۔
 جزب: پارٹی، گروہ (ج) اجزاب۔
 حوزمۃ: کیونٹ پارٹی۔
 حوزمۃ: سوشلسٹ پارٹی۔
 حوزمۃ: حزب مخالف۔
 جزبۃ: پارٹی بندی، گروہ بندی۔
 متجزب: گروہ بندی، پارٹی باز۔
 حوزون: ناہ جون۔
 حوزق: حوزق، دباؤ ڈالنا۔
 حوزم: حوزم، بانہ، جھٹا، بندل بنانا، پید کرنا، احتیاط برتنا۔
 حوزم: جھٹا، دور اندیش۔
 حوزمۃ: ناچی، سوگی۔
 حوزم: حوزم، حوزم، حوزم۔
 حوزمۃ: آؤیٹر، حوزمات کی جانچ کرنے والا۔
 حوزمۃ: اکاؤنٹنگ، حساب کا کام۔
 حوزمۃ: کرنٹ، اکاؤنٹ۔
 حوزم: حوزم، چکانا، الگ کرنا، ختم کرنا۔
 حوزم: قطعہ، فیصلہ کن، نازک۔
 حوزم: حوزمات، اصلاحات۔
 حوزم: حوزم، سوپ، شوربا۔
 حوزم: حوزم، فوج جمع کرنا۔

حشو: حشویۃ: گدا (ج) حشایا۔	حظر: ممانعت رکاوٹ۔	مُحاکمۃ: مقدمہ سماعت مقدمہ۔ حکمی۔
حشاً: بھرتا، ہتھیار میں بارود وغیرہ بھرتا۔	حَظْرُ النُّجُولِ: کرفیو۔	حاکمی: گراموفون، فونوگراف۔
حصد: مخصدۃ: کھیتی کاشتے کی مشین۔	حضر: حافظ: (ج) حواظ: محرک باعث۔	حلب: جلابۃ و منخلب: دودھ کا کارخانہ ملک ڈیری۔
حَضْرُ الکَلِمَة او العبارة: حصراً: بریکٹ لگانا۔	حفظ: مُحالِظ: کلکٹر، نگران۔	خلیب اللوز: شیرہ بادام۔
حصیرۃ: جن چٹائی (ج) حصالو۔	مُحالِظ القطار: گارڈ (ریلوے)	حلج: منخلجۃ: پٹائی کا کارخانہ۔
خصافۃ: اصابت رائے۔	مُحَفَظَة: کس ٹراف ہست۔	خلزونة: بیج دار کیل۔
حصول: حَصَالَة: روپے جمع کرنے کا بکس سیولگ بکس۔	محفوظات: ریکارڈ پرانے کاغذات۔	خلزونی: بیج دار۔
حصیلة: پیداوار، نتیجہ حاصل مجموعہ آمدنی (ج) حصائل۔	حفل: منحفۃ: اسٹریچر، پاگی۔	جلف: ایک معاہدہ کنفیڈریشن۔
محصول: پیداوار (ج) محاصیل۔	خفل: بزم، مجمع، جلسہ، تقریب۔	عشکرئی: فوجی معاہدہ گٹھ جوڑ (ج) اختلاف۔
حَضَن: آخصانۃ: قلعہ بند ہونا۔	حفلة: جلسہ پارٹی (ج) حفلات۔	حسلی: منخلجۃ: بسٹنی ریزرو بال کاشنے کی مشین۔
تحصینات: قلعہ بندیاں۔	حفلة الشای: ٹی پارٹی۔	حَل: پارٹی ختم کرنا، وزارت توڑنا۔
مُحَضَّن: قلعہ بند، منبوہ، محفوظ۔	حفو: خفاوۃ: خیر مقدم، اعزاز و اکرام۔	احتلال: قبضہ، جمانا، قابض ہونا۔
حصی: خصاۃ بولیۃ: پتھری جو پیشاب کی راہ سے نکلتی ہے۔	حقب: حقیقۃ: ایک سوٹ کس (ج) خقباب۔	ارض محتلۃ: مقبوضہ علاقہ۔
إحصاء النفوس: مردم شماری۔	حق: تحقیق: ثابت کرنا، برلانا، جانچ پڑتال کرنا، چھان بین کرنا۔	خَلَة: ڈھکن دار دھبھی۔
احصائیۃ: اعداد و شمار۔	استحقاق: صلاحیت، اہلیت۔	إندخال: ڈھیلا پن، سستی، کمزوری۔
حضر: حُضُور: حاضری، شرکت، موجودگی، پیشی۔	مُحَقِّق: انسر تحقیقات۔	خلویات: مٹھائیاں۔
خضارۃ: تہذیب، تمدن، شہریت۔	خفنة: پچکاری، انجکشن۔	خمرہ: سرخی، ہونٹوں کو لگانے کی سرخی۔
خضوی: شہری، تمدنی۔	مُحَقِّقۃ: سرخ، پچکاری۔	خَمْر: چرچرا پن۔
خاضرة: پای تخت (ج) حواضر۔	خکک: کھریا چاک۔	خمسہ: جوش دلانا، مشتعل کرنا۔
مُحَضَّر: روڈ نڈا، کارروائی (ج) محاضیر۔	حکساک: الاحجار الکوسیمة: گھینے ساز جو اہرات کو تراشنے والا۔	خماہی: بڑ جوش، مشتعل مزاج۔
إخضار: پیش کرنا، عدالت کی پیشی۔	مُحَقِّقۃ: سرخی، پچکاری۔	حَمَص: تمہیصا: سینکا، بھوننا، ٹوٹ پاروٹی وغیرہ سینکانا۔
إحضاریۃ: کمن عدالت۔	خکک: کھریا چاک۔	حمل: جمالۃ و خمالۃ: پل کے ستون۔
استحضار: طلب کرنا۔	حکساک: کھریا چاک۔	مُحَمَّل: ڈولی (ج) محامل۔
مُنتَحَضِرَات: تیار کردہ سامان۔	حکساک: کھریا چاک۔	مُحَمَّل: گاڑی کا لوڈ، وزن۔
تحضیر: تمدن، تیاری۔	حکساک: کھریا چاک۔	خامل: اسٹینڈ (ج) حوامل۔
تحضیر: شہری بنانا، تیار کرنا۔	حکساک: کھریا چاک۔	حمی: مہامی: وکیل، بیرٹر۔
خاضرة: پچکاری، پچر دینا۔	حکساک: کھریا چاک۔	حمامہ: حماماۃ: وکالت کرنا، مدافعت کرنا۔
مُحاضِرۃ: کلچر، علمی تقریر (ج) مُحاضِرَات، مُحاضِر۔	حکساک: کھریا چاک۔	مُحَمَّیَات: بحر و علاقے۔
حَضَن: حصانۃ: پرورش، نرسنگ، دایہ گری۔	حکساک: کھریا چاک۔	جمایۃ: حفاظت، ہراس، نگرانی۔
حاضنة: دایہ نرس (ج) خواصین۔	حکساک: کھریا چاک۔	جمایۃ قوئیۃ: بین الاقوامی نگرانی۔
حَطّ: منخبطۃ: اسٹیشن (ج) محطات۔	حکساک: کھریا چاک۔	جمایۃ: حفاظتی دست (ج) خواصی۔
	حکساک: کھریا چاک۔	حقیقۃ: ٹیٹو۔
	حکساک: کھریا چاک۔	حکک: منخک: تجربہ کار، ہوشیار۔

خروج: حاجیات: ضروریات: لوازم۔	خوارة:	خروط و خرواطة: خراد کا کام یا پیشہ۔
خوردیة: پیری (ج) خوردیات۔	محتویات: مندرجات۔	خراط الخشب: خراد کا کام کرنے والا۔
مخورد: تیل، نوہے کی لاث جس پر دونوں پہنے گھومتے ہیں۔	حمید: جہاد، مُحايدہ: غیر جانبداری۔	مخروطة: خراد کی شین۔
خیز الامکان: دائرۃ امکان۔	مُحايدہ: غیر جانبدار کنارہ کش۔	خريطة: جغرافیائی نقشہ، نقشہ (ج) خرائط۔
النحاز الیہ: کسی کی طرف جھکتا طرف دار ہونا۔	حیوئى: حیاتی زندگی کا زندگی کے لئے ناگزیر۔	خروج: مختلوع: ایہاد (ج) مختلوعات۔
جیازة: قبضہ ملکیت۔	حیویة: قوت حیات۔	خوم: خوامہ: سوراخ کرنے کا اوزار۔
تحیو: نظر فدا رنی، جانبداری۔	﴿خ﴾	تخریمة: مختصر راستہ۔
متحیو: طرفدار، جانب دار۔	خبيا: مغبنا: پناہ گاہ۔	عززل الکلام: عزلا و اعتزل: مختصر کرنا۔
حوض الارض: کھاریاں بنانا۔	خبير: مخابرة: خبر رسائی۔	اشاروں میں کلام کرنا۔
حوض السفن: گودی جس میں جہاز کھڑے ہوتے ہیں۔	اختيار: امتحان، ٹیسٹ، تجربہ۔	اختزال: اشارت نویسی، اسٹیوگرانی۔
حوط اختیارى: ریزرو، محفوظ۔	استخبار: تحقیق کرنا۔	عزین: جزائفة: الماری، تجوری۔
محیط: دائرۃ، سندڑ، ماحول (ج) محیطات۔	خبيرة: واقفیت، مہارت۔	خوینة: خزانہ، بیت المال۔
محتوظ: مصلحت اندیش محتاط۔	خبير: صاحب بصیرت، تجربہ کار ماہر فن، ج خبیراء۔	خوزان: تالاب، ڈیم، حوض، مٹکی (ج) خوزانات۔
محول تحویلاً: حالت بدلنا، منتقل کرنا، ریل گاڑی کی لائن بدلنا۔	مختبر: تجربہ گاہ، لیبارٹری (ج) مختبرات۔	خزانی: خزانچی، منتظم گودام۔
أحوال... الی: مرسل کرنا، محول کرنا۔	مخبیز: زون کی دوکان، بیکری، بسکٹوں کا تنور۔	مخزون: دوکان، اسٹور، گودام (ج) مخازن۔
أحوال علی المعاش: نشن دینا۔	ختم: مہر، نشان، مہر کا آلہ۔	خشب: خشب: بغیر پالش کیا ہوا۔
حالاتی: ابن الوقت۔	ختمة: اسٹامپ، پید، مہر کی سیاہی کی ڈبیہ۔	خشین: اکھڑ سا وہ بداخلاق۔
خوالة تحویل: آرڈر، حکم۔	خندة: مغلطہ، تکیہ، گدا۔	خصص: خصوص: تعلق، نسبت۔
"مالیة: چیک، ڈرافٹ، منی آرڈر۔	خندره: خندریا، سن کرنا، بے ہوش کرنا۔	تخصیص: منفر د ہونا، امتیاز و مہارت حاصل کرنا، کسی علمی شعبہ کا ماہر ہونا۔
خوالی: تقریباً برابر۔	خندو: خندو، بے حس، بے ہوشی۔	متخصص: فاضل ماہر۔
تحویل النقود: تبادلہ سکہ۔	مخبیز: بے ہوش یا سن کرنے والا۔	اختصاص: دائرہ اختیار (ج) اختصاصات۔
تحویلة: ریلوے کاٹنا۔	خدم: استخدام: خدمت لینا، ملازم رکھنا، کام لینا، استعمال کرنا۔	اختصاصی: اسپیشلسٹ ماہر۔
مخاللة: بڑا تیلین۔	مستخدم: ملازم، نوکر، کارکن۔	مخصوص: اسپیشل، پرائیویٹ۔
مُحَوَّل: منی آرڈر، بیجئے والا، ڈرافٹ یا چیک کے ذریعہ رقم بھیجنے والا۔	مُحَمَّلة: ملازمت، نوکری۔	مخصما: کسی کے مقابلہ پر قیمت میں کمی کر دینا۔
مُحَوَّل: ریلوے سٹیجی جس کے ذریعہ ریل گاڑی ایک پٹری سے دوسری پٹری پر جاتی ہے۔	مُحَمَّلة: ملازمت، نوکری۔	مخصغ له: ماتحت دوست مگر ہونا۔
مُحَوَّل جسی: مُحَوَّل: سوچ، من ریل کی کٹنی بدلنے والا۔	مُحَمَّلة: ملازمت، نوکری۔	مخاصغ: ماتحت دوست مگر۔
مُحَوَّل علیہ: رقم پانے والا جس کے پاس منی آرڈر بھیجا جائے۔	مُحَمَّلة: ملازمت، نوکری۔	مخطر: مخاطرب: مخاطرة: بازی لگانا، خطرہ مول لینا۔
مُحَوَّل له: جس کے نام چیک یا ڈرافٹ کیا گیا ہو۔	مُحَمَّلة: ملازمت، نوکری۔	مخطر: مخاطرب: مخاطرة: بازی لگانا، خطرہ مول لینا۔
حوی: حواوی: ہمداری، سپیرا، شعبہ باز (ج)	مُحَمَّلة: ملازمت، نوکری۔	مخطر: مخاطرب: مخاطرة: بازی لگانا، خطرہ مول لینا۔

خط جوتی: ایئر لائن 'فضائی راستہ۔
 خط سگتہ الحدید: ریلوے لائن۔
 خطہ: لائحہ عمل 'اسکیم' منصوبہ (ج) خطہ۔
 تخطیط: پیمائش زمین 'سروے' چک بندی 'حد بندی۔
 خفر: خفیہ: چوکیدار (ج) خفراء۔
 مخفر: چوکی 'پولیس چوکی۔
 خفص: کم کرنا۔
 تخفیف: رعایت 'کمیشن۔
 خف: ناف 'بوٹ' سلپر (ج) اخفاف۔
 خفۃ الید: ہاتھ کی صفائی 'شعبہ۔
 خفق البیض: خفقا: انڈا پھینسا۔
 مخففة البیض: انڈا پھینسنے کا آلہ۔
 خلص: خالص 'أجرة البرید: محصول ڈاک' پوسٹ۔
 استخلاص: مال چھڑانا۔
 خلع: خلاصہ: آدراسی۔
 خلیع: آوارہ 'بد معاش۔
 خلف: مختلفات: متر و کسامان۔
 خلفیۃ الصورة: بیک گراؤنڈ 'پس منظر۔
 خلفۃ: کپڑے کا ٹکڑا۔
 خلق: خلقانی: پرانے کپڑے بیچنے والا۔
 اختلاق: اختراع کرنا 'گھڑنا۔
 مختلق: من گھڑت 'ساختہ' جعلی 'بناوٹی' بے حقیقت۔
 خلوی: دیہاتی۔
 اخلاء: اخراج 'جلا وطنی۔
 خماسی: 'مخمس' پانچ رکنی 'پانچ اجزائی۔
 خمول: سستی 'گمانی۔
 خول: خویلا: حق پرورد کرنا 'پیر و کرتا۔
 خان: سرانے 'ہول' (ج) خانقات۔
 خیط القنب: تلی۔
 خیش: کیوبیس ایک دبیز کپڑا۔
 خیش الیہ کذا: اسے ایسا خیال ہوا۔ اس نے ایسا سمجھا۔
 مخیش: حیران کن 'توہم خیز۔
 مخیلة: قوت تخیلیہ 'دماغ۔

خیم: مخیم: (ج) مسخیمات: خیمہ گاہ 'گیمپ' پناہ گزیر 'کمپ۔
 خام: خام: ناچینے 'سارہ۔
 خامات: ابتدائی میٹریل 'خام اشیاء۔
 دایل: گھڑی کا ڈائل۔
 دہابہ: ٹینک (ج) دہات۔
 دیاج: دیاجہ: سرنامہ 'القاب' خط کا یا کتاب کا تمہیدی مضمون۔
 دیو: خطہ: اسکیم بنانا۔
 دیسورہ: اسٹار فوجیوں کی وردی کا ستارہ 'پتھر توڑنے کا آلہ۔
 دیس: دیوس: 'پن' سیٹھی 'پن' بالوں کا کلپ (ج) دبایس۔
 دیغ: مذبحہ: چڑھا کر کے کا کارخانہ۔
 ذخل: آمدنی۔
 ذخیل: بڑی غیر ملکی (ج) ذخلاء۔
 ذخیلیۃ: اندرونی معاملات کا حکمہ۔
 مدخول: آمدنی 'پیداوار۔
 مدخن: تمباکو بھاپ 'دھواں۔
 مدخنہ: تمباکو 'دوازم فروخت کرنے والا۔
 مدخنہ: مدخنہ: دھواں لگنے کی چٹی۔
 مذہبہ: مذہبہ: تلوینا: مشق کرنا۔
 مذہبہ: تلوینا: تربیت دینا۔
 مذہبہ: مشق کرنا 'تربیت پانا۔
 مذہبہ: تجربہ 'مشق' عادت۔
 مذہبہ: ہوائی اڈے کی مرکز 'رن وے۔
 مذہبہ: ہیزکی دراز (ج) آذراج۔
 مذہبہ: گریڈ۔
 مذہبہ: دیوانہ: تعلیم 'مطالعہ' غور و خوض 'معائنہ۔
 مذہبہ: فکر: مکتب فکر۔
 مذہبہ: درسی 'اسکول' کا۔
 مذہبہ: زرہ پوش۔
 مذہبہ: بکتر بند گاڑیاں۔
 مذہبہ: دعا: دعا: پروردگار۔

دعوة: دعوی: مقدمہ 'کیس۔
 دفء: دفیۃ: مدفاۃ: اسنو: آئیٹم۔
 دفتر: کاپی نوٹ 'بک (ج) دفاتر۔
 دفتر: خانہ: محافظ خانہ۔
 دفع: ادائیگی۔
 دفعة مالیۃ: قسط۔
 دافع: محرک 'سبب' دوافع۔
 مدافع: توپ (ج) مدافع۔
 مدفوع الیہ: وصول کنندہ۔
 مدفعیۃ: توپ خانہ۔
 دقة: ہارکی 'مہارت' نزاکت 'پختگی' ہوشیاری۔
 دکاتور: ڈکٹیٹر۔
 دکور: ڈاکٹر 'اعلیٰ علمی' ڈگری والا۔
 دکور فی الحقوق: ڈاکٹر آف لاء۔
 ذؤلاب: مشین 'آلہ' پیسہ۔
 ذلیل: دلیل: راہ نما 'گائیڈ۔
 ذلیل البلد: ڈائریکٹری۔
 ذلیل السیف: ہانکت 'جہاز' ازان۔
 دمر: مدبورہ: جنگی جہاز۔
 ذفن: تیل 'وارش' روغن۔
 دھان: وارش 'روغن۔
 دھان: رنگ ساز 'روغن گر۔
 دور: ذار: (ج) ادوار: گھر۔
 ذار الاثار: میوزیم۔
 دار التعمیل: تجویز 'سینما گھر۔
 دار القضاء: کچہری۔
 دایورہ: حلقہ 'دفتر' علاقہ 'زون' دوالتہ۔
 دورہ: نمبر 'مقررہ وقت' درجہ نامی 'عمارت کی منزل' اسٹوری۔
 دورۃ: عیشی پارٹی (ج) دوریات۔
 ذوار: متحرک 'گھومتا' (دروازہ وغیرہ) پیپیری والا۔
 إدارة: نظم و نسق 'انتظام' اہتمام 'دفتر' محکمہ۔
 ادارتی: انتظامی۔
 مداور: وقت شناس 'زمانہ ساز۔
 مدیر: ناظم 'متہم' مینجر 'کلرک' (ج) مدراء۔
 مدیرۃ: ضلع: صوبہ (مصری)

مواقب: نگران سپروائزر۔
مواقب: رصد گاہ۔
مواقب فلکی: ثلثی سوپ۔
رقص: رقاصۃ الساعۃ: پنڈولم۔
مرفص: تاج گھڑوانک ہال۔
رفع: رفعة العنون: لبیل چٹ۔
مرفعة: اسٹینسل۔
زقم: نمبر (ج) ارقام۔
توقیم: نمبر النان۔
رکب: موکتب: سواری جہاز۔
زٹاب: سواریاں مسافر۔
رکس: مرگس: مرتبہ پوزیشن 'مہدہ' اسامی۔
پوسٹ: صدر مقام۔
رن: رٹان: گوخدرار۔
رہن: راہن: حاضر و موجود۔
خالقراہنہ: موجودہ حالت۔
رود: زائد: رابنما۔
رابند الفضاء: خلاہماز خلائی مسافر خلائی کھوج
لگانے والا: اکاؤٹ۔
روی: دواہی: ناول تفتہ۔
روانی: ناول نویس۔
زنی: آپ پاشی۔
ریف: دیہات زراعتی زمین۔ (ج) اریاف۔
زبدیۃ: بیالہ (ج) زبادی۔
زبل: زبالۃ: کوڑا۔
ضندوق الزبالۃ: کوڑے کی گاڑی۔
مزبلۃ: کوڑا خانہ۔
زخف العیش: عیش قدی کرنا۔
زخافۃ: زمین ہموار کرنے کا آلہ۔
زخلوفا: پھسلواں زمین پھسلواں تختہ۔
زعم: زعامۃ: لیڈری لیڈرشپ۔
زعم: قوم کا لیڈر سربراہ (ج) زعماء۔
زعم: عصابیہ: کسی پارٹی کا سرغن۔
زفت: تارکول۔
زفتہ: ترفینا: تارکول ملنا ڈالنا۔
زکب: زکیۃ: پوری بڑا تھیلا۔

زلج: جزلاج: چٹنی۔
بزلیج: پھسلواں کڑاؤں۔
زلط الارض: تزلیطا: زمین پر کنگریٹ ڈالنا۔
زعل: زمیل: شریک کارنامہ پیشہ۔
زئبرک: اسپرنگ۔
زنک: توتیا جست۔
زہرینۃ: گلدان پھول رکھنے کا برتن (ج) زہریات۔
زہریۃ: گلدان۔
زوج: کسی شے کا جزا دو۔
مززوج: ڈبل دوہرا۔
خط مززوج: ڈبل لائن۔
زودہب: تزیینا: بہیم پہنچانا پہچانی کرنا دینا۔
زورۃ: ایک ملاقات۔
زیارۃ: ملاقات کسی ملک کا دورہ۔
زائر: ملاقاتی (ج) زوار۔
مزار: قابل زیارت مقام۔
زوال: زائل: الحصل: مزاولۃ: مسلسل کرنا بطور
پیشہ کرنا۔
مزول: ٹیلی فون کا ڈائل۔
مزولۃ: دھوپ گزری۔
زیت الالۃ: عیشین کو تیل لگانا۔
زیت الغاز: مٹی کا تیل۔
زیاد: زیادۃ: اضافۃ الاوائس۔
زائدۃ: دودھیۃ: اپڈی سائٹس۔
مزاد: نیلام۔
مزایدۃ: فروکش بذریعہ نیلام۔
زنی: طرز فیشن: مجیس روپ (ج) ازیاء۔
سأل: مسئول: ذمہ دار۔
مسئولۃ: ذمہ داری۔
سنبخ: کھاد (دارچہ)۔
سبر: مسبورة: تختہ سیاہ بلیک بورڈ۔
میسر و میسار: کسوٹی۔
سبرو: اسپرٹ۔
سبق: متواہق: بگڑتہ جرائم۔
سک: ڈھلائی دھاتوں کی گھائی۔

سنبک: ڈھلائی کا کارخانہ۔
سنبک: حروف الطباعۃ: ٹائپ فونڈری۔
سیکۃ: سونے چاندی یا دیگر دھاتوں کا پگھلا ہوا ڈالا (ج) سبائک۔
سٹ: خاتون (۱)۔
سٹونی: ساٹھ سالہ۔
سٹو: سٹار: آڑ رکاوٹ۔
سٹور: کوٹ: آستین دار صدری۔
سجاده: جانماز: قالین (ج) سجاجید۔
سجیل: سجیل: سجیل: دورج کرنا رجسٹر میں لکھنا
بیان وغیرہ قلمبند کرنا ریکارڈ کرنا رجسٹری
کرنا۔
سجیل: رجسٹر: مندرج۔
سجیل: رجسٹر۔
سجیل: ٹیپ ریکارڈ: آجے از محفوظ کرنے کا
آلہ۔
سجل: رجسٹر: ریکارڈ: قدیم کاغذات و
دستاویزات (ج) سجلات۔
سجیان: جیلر یا جیل کا داروخہ۔
سحب: الاثری نکالنا کسی علاقہ سے فوج بنانا
لائسنس وغیرہ ضبط کرنا۔
سحق: محسوق: پاؤڈر نمکین (ج) مساحق۔
سخن: سخان: پانی گرم کرنے کا ساور بیئر بجلی
کا چوبھا۔
سدس: سندس: ریو الوور (ج) سندسات۔
سیرب طائرات: ہوائی جہازوں کی کیمپ۔
سیرح العیش: فوج توڑنا۔
سیراح: رہائی۔
سیراق الشراح: رہا کرنا۔
سیرح: تماشا گاہ۔
سیرجیۃ: ڈراما (ج) مسرحیات۔
سرد: سدرقۃ: شامیانہ لگانا۔
سرداق: شامیانہ پنڈال۔
سیرعۃ: تیزی رفتار اسپید۔
سیرع: ایکسپریس۔
سیر: مسطرۃ: اسکیل پیمانہ جدول کش۔

سوغ. ساعدا: گھڑی۔	"سیاسی: سیاسی لائن۔	سغادة: خوشحالی، تعظیمی لقب۔
ساعتی: گھڑی ساز۔	سلوک: طرز عمل، چال چلن، برتاؤ۔	صاحب السعادة یا سعادة فلان: عزت
سوق: بازار، مارکیٹ۔	سلوکی: چال چلن سے متعلق۔	مآب۔
"سوداء: بلیک مارکیٹ۔	لاسلکی: وائریس۔	مساعدة: مددگار، اسٹنٹ۔
سوق: خرید و فروخت کرنا۔	سل: سلالة، مملکت، شاہی خاندان۔	سعر: نرخ، بھاؤ (ج) اسعار۔
سوق: ڈرائیوری، گاڑی چلانا۔	سیلیبی: پراسن، امن سے متعلق۔	سعر السلعة: سامان کی قیمت مقرر کرنا۔
سواق: سائق، ڈرائیور۔	تسلیم: وصول کرنا۔	ساعرة: بھاؤ کرنا، سودا کرنا۔
سوی تسویة: برابر کرنا، جھگڑا چکانا، حساب بے باک کرنا۔	سائلمة: مسالمة، صلح کرنا۔	سعر التبادل: شرح تبادلہ۔
سیج: سیاح، بازار، چہار دیواری۔	سایلم: صلح پسند، صلح جو۔	سعر: اسعاف: ریٹیف، امداد طبی امداد۔
سیجارة: سگریٹ (ج) سجاناتو۔	سستلم: وصول کنندہ۔	سعی: سعی، البرید، پوست مین۔
سیر: رفتار، چال، ترقی۔	سمح: سماحة: عالی ظرفی، فراخ دلی	سفتجة: ہنڈی۔
سیارة: موٹر (ج) سیارات۔	رودادری (اعزازی خطاب)	سفر: سفیر: ایک ملک کا دوسرے ملک میں
سانو: ترقی یافتہ، تحریک، جاری۔	سماحة: سماحة: صاحب السماحة۔	مستقل نمائندہ (ج) سفراء۔
شان: (ج) شنون: حالات، معاملات۔	سماحة: تعظی، شجعی، معافی۔	سفارة: عہدہ سفارت، سفارتخانہ۔
کیفیات: ضروریات۔	سماد الارض: تسمیذا، کھاد، انا۔	سغور: بے جا، بے پردگی۔
شبک: شبکة: چال، چالی۔	سماد: کھاد (ج) سمدة۔	سفن: سفینة: جہاز (ج) سفن۔
اشتیاک: الجھاؤ، تصادم، جھڑپ۔	سمع: سمع: اسٹیٹ، سکوپ، طبی آلہ جس	سفانة: کشتی رانی، جہاز رانی۔
شیک: سگریٹ پائپ، حدکی نے۔	کے ذریعے سینے کی آواز سنی جاتی ہے۔	سقطی: پرانے کپڑوں کا تاجر۔
شیک: سلاخوں دار کھڑکی (ج) شبابیک۔	شسو: بلند عظمت (کبر، تعظیم) جو عموماً شاہی	سقف: سقف: سامان (ج) سقفانف۔
شبیک: بکسوا، کلپ۔	خاندان کے افراد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے	شجر: شجر، کھانڈ۔
شبه جزيرة: جزیرہ نما۔	بمعنی اعلیٰ حضرات، عالی جناب۔	"خام: گڑ یا شکر۔
شبه رسمي: نیم سرکاری۔	شماوة: چھجا، سامان۔	شجرية: شکر دان۔
شسو: ششوی، گرم مقام جہاں موسم سرما گزارا	شند: رسید، واؤ، چر، وثیقہ، یونٹ۔	شجرية: بطشتری، پلیٹ۔
جائے (ج) مشتیات۔	شندات: دستاویزات۔	سکو تیر: سیکرٹری۔
شجب: مشجب: بک، کھوٹی۔	شندتات: دستاویزات۔	سکو تارینة: سیکرٹریٹ، سیکرٹری آفس۔
شج: تشجیع، ہمت، افزائی۔	شہم: کمپنی کا حصہ، شیر۔	سکنة الحديد: ریلوے۔
شحط: شحیطة: دیا سلائی۔	شہامہ: حصہ دار۔	سلح: تسلیح: مسلح کرنا۔
شحن: شحنا: کشتی یا جہاز پر سامان لادنا۔	شہامہ: شہامہ: حصہ لینا۔	سلاح الطیران: فضائی طاقت، ہوائی فوج۔
شحن وشحنة: وزن، لوڈ، لادی، لاد جانے	شہم نازی: راکٹ۔	تسلح: ہتھیار بندی۔
والا سامان۔	سیح: ساحة: میدان، گراؤنڈ۔	سلطة: اختیار، منصب، حاکم۔
شند: شندوڈا: جماعت سے الگ ہونا، خلاف	ساحة المصارعة: کشتی کا دنگل۔	"سلطة: اختیار کامل۔
قیاس ہونا، مخالف اصول ہونا۔	سود: سادآ: چھما چانا، سکھ جمانا۔	سلطات: حکام، اتھارٹیز۔
شرب تشربنا: پیوست کرنا، دماغ میں بھگانا	سيادة: اقتدار، بالادستی۔	سلطة: چٹنی۔
ملقین کرنا۔	سید: یا اقتدار، مسٹر، جناب۔	سلطانية: بڑا، عالی، ڈونگا۔
شربة: چٹنی، سوپ۔	سیدات: خواتین۔	سلفة: قرض مع سود۔
	سودیا: ملک شام۔	سلفا: پیشگی، پہلے۔
	سودی: ملک شام کا رہنے والا۔	سلفک: سارا لائن (ج) اسلافک

شواہب: شہرت، مشہور ہو۔

شوح: فیتہ ڈور۔

شوح: ک شوحا: سلاکس کا ٹٹا، پوسٹ مارٹم کرنا۔

شوحہ: سلاکس، لمبا ٹکڑا، قاش۔

مشوحہ: چہرہ اور پوسٹ مارٹم کا کمرہ۔

شورود: فرار، آوارگی، انتشار، ذہنی۔

شروطہ: پولیس (ج) شرط، شرطی۔

شرطہ: (-) چھوٹا خط جو دو جملوں کے درمیان ہوتا ہے۔

شرطیہ: معاہدہ، بندھی ہوئی شرط۔

شریط: فیتہ، تسم، ٹیپ پٹی (ج) اشراطہ۔

مشروط: آلہ جراحی سے جس سے جلد کو کاٹا جاتا ہے۔

شروع: ک شروعاً: قانون بنانا۔

شرعی: قانونی، جائز۔

شروع: قانون ساز لائحہ عمل اور منصوبہ تیار کرنے والا۔

تشریح: قانون سازی۔

مشروع: اسکیم، منصوبہ، مسودہ، قانون، جائز۔

معتدع: قانون دان، پیرسٹر۔

شرف: عزت، اعزاز، فخر۔

شرفی: اعزازی۔

اشرف: علی، نگرانی کرنا۔

المشرف: نگران، سرپرست۔

شرفہ: بالکنی، گیلری (ج) شرف۔

تشریفہ: تقریب، سرکاری۔

تشریفاتی: سرکاری تقریبات کا منتظم۔

شرفی: بشرق، شمال۔

الشرق الادنی: مشرق قریب۔

الشرق الاقصی: مشرق بعید۔

شوک: جال، پھندا۔

شرکتہ و شریکہ: کمپنی، فرم (ج) شرکتات

شریک و مشاور: حصہ دار۔

اشیراک: اخبار یا رسالہ کی خریداری، اخبار یا

رسالہ کا چندہ۔

اشیراکچی: سوشلسٹ۔

اشیراکچی: سوشلزم۔

اشیراکچی: منظرہ، کیونزم۔

شطب: آ شطباً: مٹانا، قلم زد کرنا، نام خارج کرنا۔

شعب: پبلک، عوام (ج) شعوب۔

شعبی: عوامی، جمہوری۔

شعار: نشان، امتیاز، بیج، مارک۔

شعور: جذبہ، وجدان۔

شعل: مہلعلی، مشعل، بردار۔

شعب: بدامنی، شرارت، فساد، ہنگامہ۔

شعاب و مشاعب: فتنہ، فساد۔

مشاعبہ: فتنہ، گردی، فساد، انگیزی۔

شغل: مشغلہ، مصروفیت۔

شغل، تشغیل: کام پر لگانا، مصروف بنانا، مشین

چالو کرنا۔

تشغال: کارکن، مزدور، بے حد مصروف۔

شفاعی: سفارشی۔

شفہی، شفوی: زبانی۔

شفو، مستشفى: ہسپتال (ج) مستشفيات۔

شقة: عمارت کی ایک منزل، ایک حصہ۔

شکور، بشکارہ: توس، وغیرہ سینکے کی جالی، بیگ

تھیلا۔

شکل، الکلمة، شکلا: اعراب لگانا۔

تشکیل: مصور کرنا، شکل دینا، تشکیل دینا، سمیٹی

وغیرہ بنانا۔

تشکیلات: انتظامات، تیاریاں۔

مشکلہ: پیچیدہ مسئلہ، الجھن، قضیہ۔

مشکول: بااعراب۔

شلل، شلال، آ بشار (ج) شلالات۔

شمع، شماعة: کپڑے لگانے کا بیگ یا اسٹینڈ۔

شمشمع: آکل کلا تھ، موسم کی پالش کیا ہوا کپڑا،

چکنا کپڑا۔

شماعة: ال ٹین کا کھابرز۔

شنت، شنتطہ: بیگ، تھیلا۔

شہدہ، المجلس: ک شہوداً: شریک ہونا۔

شہادۃ: تصدیق نامہ، شہادت، سند، فراغت

ڈیلوما (ج) شہادات۔

الشاہدۃ: رجسٹر اسلات، جس میں خطوط کی

نقول محفوظ رکھی جاتی ہیں۔

شہرہ، البندقیۃ: ک شہرہ: ہندوق، تاننا۔

اشہار: اعلان۔

شہی: مرغوب، مقبول۔

شور: شازہ، نشان، خاص۔

إشارة بوقیۃ: ٹیلی گرام۔

إشارة سكة الحديد: ریلوے گنٹل۔

آشوحی: گنٹل مین۔

المشیر: فیڈ مارشل۔

مستشار: مشیر۔

شوش، شاشۃ: پردہ، پتیلیں۔

شاویش: سارجنٹ، دس سپاہیوں کا افسر۔

شوی، شویۃ: بھونسنے اور سینکے کا آلہ، فرائی پن

کڑچھا۔

شیت: چیٹ، ایک کپڑا۔

شبع، شاعة: افواہ (ج) شاعات۔

شبیوع: اشاعت۔

شبیوعی: کمیونٹ۔

شبیوعیۃ: کیونزم۔

إشاعة: افواہ (ج) اشاعت۔

صالۃ: بوا کرہ، کمرہ، استقبال۔

صبح، مصباح: لیپ۔

صبح، مصبح: سینکے کی جالی۔

صبح، مضبغة: رنگائی کا کارخانہ۔

صبن، صبان: صابن ساز۔

صنابونۃ: صابن کی تکیہ۔

مضبنة: صابن کا کارخانہ۔

صحح، صحیح: صحت افزا، صحت سے متعلق۔

صحف: اخبارات، واحد: صحیفہ۔

صحاف: اخبار فروش۔

صحافة: اخبار نویس۔

صحفی: اخبار نویس۔

صحن، پلیٹ (ج) صحون۔

صدد: سلسلہ، تعلق، بصدد کذا: فلاں چیز کے

سلسلہ میں۔



صدور الكتاب: پیش لفظ لکھنا۔	صف الحروف: صفًا: کمپوز کرنا، لوجہ کے
اصدر: جاری کرنا، شائع کرنا۔	حروف کو ترتیب دینا۔
تصدیر: کتاب کا پیش لفظ بیرونی ممالک میں	صف: لائن، تقابلی درجہ، کلاس (ج) صفوف:
مال بھیننا (ایکسپورت) برآمد۔	صفاف: کمپوزیٹر۔
صادر: باہر جانے والا مال۔	صقل: صقلًا: پالش کرنا۔
صادرات: برآمدات۔	صقلیل: پالش کیا ہوا، چمکانا، چمکانا۔
مصدر: سرچشمہ (ج) مصادر:	صلح: صلاحیت: لیاقت، اختیار۔
مصادر علمیہ: باخبر حلقے۔	صالح: مفاد، منفعت۔
مصدر: ضدی، دو اسکت، صدی۔	مصلحة: محکمہ، فائدہ۔
صدوریۃ: صورتوں کا سینہ بند۔	مصلصلة: شوربا (۱)
صدق: صادق علی..... مضادقہ: منظوری	ضمم: تضمیم: خاکہ، ڈیزائن (ج) تضمیم:
دینا، جانز قرا دینا۔	ضمور: تینو (ج) ضمیر: ٹوٹیاں۔
صرح بکلا: بیان دینا، وضاحت کرنا۔	صنع البلاد: تصنیعاً: ملک کو صنعتی بنانا۔
تصریح: بیان اجازت نامہ، اعلان اقرار	صناعی: صنعتی، مصنوعی۔
نامہ۔	صانع: کارگر (ج) صناع:
صرخ: صاروخ: راکٹ (ج) صواویرخ:	مصنع: کارخانہ، ٹیکسٹائل (ج) مصانع:
صاروخ: تار بیڈو۔	مصنعيۃ: اجرت مزدوری۔
صرع: صراعت: کشمی۔	صفر: ک صفرًا: معدنیات کو کھلانا۔
مصروع: اکھاڑا۔	صفریج: پانی کا تالاب، ٹینگی، خوش ریلوے
مصراعۃ: پیلاوان۔	انجن کے پیچھے لگا ہوا ڈبا۔
مصراعۃ: پیلاوانی کشمی۔	صوب الیہ: نشاندہ کا تاریخ کرنا۔
صرف: صرفاً: خرچ کرنا، ٹوٹ بھنانا، رقم کا	صوت تصویرنا: ووٹ دینا۔
تبادلہ۔	صوت: ووٹ (ج) اصوات:
تصرف: کارروائی، تدبیر، روش۔	مصوت: ووٹر، الیکشن میں رائے دینے والا۔
تصرفات: طور طریق، افعال و حرکات۔	صودا: سوڈا۔
صراف: کشمیر، تھویدار، رقم یا سکہ تبدیل کرنے	صودا کاویہ: سوڈا اسک۔
والا۔	صودۃ: نقل، کاپی، نسخہ، فونو۔
مصرف: تک (ج) مصارف:	تصویرة: فونو تصویر۔
مصرف الماء: پانی کی تالی۔	مضورة: کیمرو۔
مصروف: خرچ (ج) مصاريف:	صیغة القانون: قانونی اسلوب، طرز۔
مصاريف الدعوی: ذمہ داری خرچ۔	صومعة: کیمین، چھوٹا کیمرو۔
منتصرف: با اختیار۔	صوان: الماری، بکس۔
صلح: مصفحات: زرہ پوش گاڑیاں، بکتر بند	صید: مضیدۃ: پھندا، جال، چوبے دان۔
گاڑیاں۔	صیدلۃ: دوا سازی۔
صفیحة: معدنی چادر، پلٹ (ج) صفائح:	صیدلیۃ: فارسی، انگریزی، دو اہانت۔
صفو تصغیر: سینی، بجانا۔	صیدلی: صیدلانی: انگریزی دوائیں، فروخت
صفارة: سینی۔	کرنے والا۔

صیغۃ: نئے، صیغہ۔

ض

ضبط الباب: دروازہ کو قہقہہ تالہ لگانا۔

ضبطۃ الباب: قہقہہ تالہ چھنی۔

ضبط: طمان، تسبیح۔

ضبطیۃ: پولیس اسٹیشن۔

ضابط: انصر (ج) ضابطہ:

ضابطۃ: پولیس۔

مضبطۃ: معاہدہ، کارروائی۔

مضخ: مضخۃ: پمپ، پینڈ پمپ، پمپکاری (ج)

مضخات:

مضرب: مضربۃ: دارالشراب جہاں سکنے کے حوالے

جاتے ہیں، نکال۔

مضربۃ: ٹیکس (ج) مضرب:

اضطراب: ہنگامہ، گھڑبڑ۔

مضرب: بلا، بیت۔

مضغط: دباؤ، زور۔

مضم: الی۔ ضمًا: شامل کرنا۔

مضیف: مضیف: مہمان خانہ۔

اضافۃ: زیادتی، شمولیت۔

اضافی: زائد، اور نام۔

مضیق: مضیق: ٹھکانے، دو مستندوں کا درمیانی

راستہ۔

ط

طیب: طیب: معالج، ڈاکٹر، حکیم۔

"طراحی: سر، جن۔

طبعة: ادیشن۔

طابع: نشان، چھاپ، ممبر (ج) طوابع: (ڈاک

ٹکٹ)

مطبعة: پریس، چھاپا خانہ۔

مطبوعات: چھاپا، مواد۔

طباق: تہا، کو۔

طابق: مکان کی ایک منزل (ج) طوابق:

تعبئة: بیکنگ، بھرتی۔	طلاء: روغن پالش رنگ (ج) اطلیة۔	طَلْبَةُ الفَنَراف: ساؤنڈ بکس۔
عبد. عبودیتہ واستعباد: غلامی۔	طهني: طاهي: باورچی (ج) طهارة۔	طَبُونَةُ: طابونہ: تھوز بیکری شکٹ وغیرہ کا کارخانہ۔
مستعبد: غلام، محکوم۔	طوب: اینٹ وطوبہ۔	طَبَّان العجلة: ٹائر۔
عبد الطریق تعیناً: راستہ ہموار کرنا۔	طواب: اینٹ بنانے والا۔	طَبْنَجَة: پستول۔
عبر. عبری: عبرت آموز۔	طوبجی: توپچی۔	طابج: فراگ پین کڑچما۔
عبارة: تعبیر، تفصیل، طرز ادا۔	طوبجیة: توپ خانہ۔	طاحن: طاحونہ: آٹا پیسنے کا انجن۔
عابو: سرسری۔	طور: تطور: تبدیلی، انقلاب (ج) تطورات۔	مطحنة: آنے کی مل۔
عق: عبقری: کمال (ج) عباقرة۔	طوروی: تعبیر پذیر۔	طوار: طواری: ہنگامی، غیر متوقع۔
عبقریة: کمال، فطری قابلیت۔	طوریبید: تاریخ و تباہ کن بحری جہاز۔	طوارى: ہنگامی حالات، ایمر جنسی۔
عجل: عاجل، فوری، ہنگامی۔	طوى: تطویا: رضا کار بنانا۔	طرب: مطرب: آفس سائز گانے والا۔
مستعجل: ہنگامی، ارجح۔	تطوع: رضا کار بنانا، انٹینری۔	طوبید: تاریخہ۔
مستعجلة: تیز رفتار گاڑی۔	متطوع: رضا کار، وولنٹیر۔	طوح: مظاہرہ: بیت بازی کرنا۔
عجم: معجم، ڈکشنری (ج) معاجم۔	طوف: طاف البلاد: دورہ کرنا۔	أطسروحة: تجسیر، تحقیقی موضوع جو ڈگری کے حصول کے لئے مقرر کیا جائے۔
عجن: معجون الاسنان، ٹوتھ پیسٹ۔	طواف: سیاح، ایجت، دلال۔	طوڈ: پارسل بیکٹ (ج) طوود۔
عدد: عدد، میٹر (ج) عدادات۔	طائفة: گروہ، فرقہ۔	طواد: کروڑوں ہنگامی جہازیں۔
عدة: سامان، تیاری (ج) غدد۔	طائفی: فرقہ دارانہ۔	طرید: آوارہ۔
عدسة: چشمہ، وغیرہ کا شیشہ۔	طوقه: تطویقا: گھیراؤ، الحاط کرنا۔	طروز: تطویز: امیر ایڈری، کشیدہ کاری۔
عدل: تعدیل، ترمیم (ج) تعديلات۔	طاقة: مجموعہ، گچھا، کھڑکی، روشن دان۔	طروز: ناؤں ساخت، فیشن۔
معدل: اوسط رفتار۔	طاقية: ٹوپی (ج) طاقیات۔	طرف: تطرف: انتہا پسندی۔
عدن تعدیناً: کان کھودنا، کان سے معدنیات نکالنا۔	طوق القميص: کالر۔	طرم: طارمة، بکری کا کرہ، کبیرن۔
معدن: کان کن۔	طول: طول: مین ڈائریکٹ (حیط طول)، مین لائن۔	طومبة: پیپ، سرنج، پچکاری۔
عدوان: جارحیت۔	طوی: طویة: فرائی پین۔	طست: پستی، ہاتھ دھونے کا برتن۔
عدائی: جارحانہ۔	طیب: طابہ: (گیندکا) بلا۔	طعم: مظعم: ریستورنٹ، کھانے کی دکان، ج مطاعم۔
عویة: گاڑی (ج) عربات	طیران: ہوا بازی، پرواز۔	طفا: مظفاة: طفایہ، فائر انجن آگ بجھانے کا آلہ۔
"(۲) ریلوے ویگن	طیار: ہوا باز۔	طقبس: موسم، تہوار، میلہ (ج) طقبوس۔
عرش: تخت۔ (ج) غروش	طیارة: ہوائی جہاز، چنگ۔	طقم: کسی چیز کا سیت، مجموعہ، جوڑا۔
"و عرش: جانوروں کا باز۔	طائرة: ہوائی جہاز۔	طلبجیة: کاندکی، ایک شیٹ۔
"و تعریشة: نئی، کٹڑی یا لوہے کی جالی جس پر انگوڑی تیل ڈال جاتی ہے۔	مطار: ہوائی اڈہ، ایئر پورٹ۔	طللس: اطللس: اٹلس، ریشمی کپڑا۔
عرض: پیش کش، نمائش۔	ظ: طرف: حالت، لفافہ، کارتوس (ج) ظروف۔	طلق: اطلاق: رہا کرنا، گولی چلانا۔
معرض: نمائش گاہ۔	ظلة: سامبان (ج) ظلل۔	طلقة: شوت، فائر، فارنگ کی آواز۔
استعراض: جائزہ، نظر ثانی۔	مظلة: چھتری (ج) مظلات۔	طلم: مظلمة: بلیٹن۔
معروض: برائے فروخت۔	مظلی: چھاتہ بردار فوج کا سایہ۔	طلسمیة: دائرہ، پب، تل۔
عسک: معسکة: لڑائی، ہنگامہ، فساد (ج) معارک۔	ع: عتبا: تعبئة: بھرتی کرنا، بیک کرنا۔	طلی: طلا: روغن کرنا، پالش کرنا۔
عری: مستعار، خارض، مصنوعی۔	عبء: بوجھ، ذمہ داری (ج) اعباء۔	

عمر: استعمار: سامراج: آباد کاری: نوآبادی بنانا۔	عظمت: شان و شوکت۔	عزوبہ: فارم: کھیت۔
مستعمرة: کالونی: نوآبادی وہ حصہ زمین جس پر غیر ملکی جماعت قابض ہو (ج) مستعمرات۔	صاحب العظمتہ: بزمجی سلطان کا لقب۔	عزز: عزیز الجانب: طاقتور: مضبوط: با اقتدار آدمی۔
عمران: تعمیر: آبادی: تہذیب و تمدن۔	عقربتہ: گاڑی کو اوپر اٹھانے کا آلہ۔	عزیز المنال: نامکن الحصول۔
عمارة: بلڈنگ: سمندری بیڑہ۔	عقش: سامان سفر فرنیچر۔	عزف: سازگی: بجانا۔
عَمَل: عَمَلَة: سکہ (ج) غَمَل: عمالہ: مزدوری: کمیشن (تجارتی) عمولہ: کمیشن: آرہیت۔	عقوا: معاف کیجئے: خود بخود۔	عزاز: سازگیا: گانے بجانے والا۔
عمیل: ایجنٹ: دلال (ج) عملاء۔	عقبہ تعقیبا: تہرہ کرنا: نکتہ چینی کرنا۔	معزف: باجا: ساز آلہ: موسیقی۔
عامل: سبب: محرک: باعث (ج) عوامل: (۲) کارگر: مزدور۔	عقوبہ مالیہ: جرمانہ۔	عزم: عزومہ: ولیدہ: دعوت ولیدہ۔
معمل: فیکٹری: کارخانہ: مل۔	عقد: عقدا: معاملہ کرنا: معاہدہ کرنا: جلسہ بلانا: کتاب میں فصل قائم کرنا: دیوار میں ڈاٹ لگانا۔	عمس: چوکیدار: پہرہ دار: وعاس۔
معمول: تیار کردہ: اثر۔	عقیدہ: ایک فوجی عہدیدار۔	عسکر العیش: فوج کا خیمہ زن ہونا۔
عملیہ: خاص فعل: کارروائی: آپریشن (ج) عملیات۔	عقرب الساعۃ: گھڑی کی سوئی۔ (ج)	عسکری: فوجی۔
عمی: تعمیہ: پوشیدہ رکھنا: گمراہ کرنا۔	عقارب۔	معسکر: بارک: فوجی کیمپ۔
طوع: طاعة: تقلید۔	عقل: اعتقال: نظر بندی۔	عشب: غشاب: جڑی بوٹیوں کا ماہر: تاجر
عنصر: اصل: جنس: مادہ: جوہر۔	معقل: نظر بندی کا مقام: جیل۔	نابات: گھاس فروش۔
عناصر: اجزاء: ترکیبی۔	غلبہ: ذبا: ذبیہ (ج) علب۔	عصۃ: گروہ: جماعت: ٹیگ۔
عنف: تشدید۔	علاج: علاج: کسی کام کو انجام دینے کی کوشش کرنا: کسی موضوع پر قلم اٹھانا: بحث کرنا: زیر بحث لانا۔	عصۃ الامم: انجمن اقوام متحدہ۔
الانحیۃ: عدم تشدد۔	علاج: تدبیر: علاج۔	(حرب) العصابات: گوریلا جنگ۔
اعتق: اعتق: تدبیر یا عقیدہ اختیار کرنا۔	علق: تعلق: تہرہ: حاشیہ۔	عصد: عصبہ: دلیا: حریرہ۔
ععن الكتاب: عنوان قائم کرنا۔	علم: استعلام: انکوائری: تحقیق۔	عصف: عاصفہ: آندھی: طوفان۔
عنوان: پتہ لکھنا: عنوان لگانا۔	مکتب الاستعلامات: دفتر تحقیقات: انکوائری	عصم: عصام: ڈوری: رسی: تسمہ: پٹی (ج)
مَعْنَوِي: روحانی: ضد۔	آفس۔	اعصمہ۔
عہد: تہذیب: گمراہی: دیکھ بھال۔	تعلیمات: ہدایات۔	عاصمۃ: پایہ تخت: راجدھانی (ج) عواصمہ۔
العہد القدید: انجیل۔	علو: علاوہ: زیادتی: اضافہ۔	عصی: عصیان مدنی: سول نافرمانی۔
معہد: ادارہ (ج) معاهد۔	علاوات الغلاء: گرانے والا: آفس۔	عضو: کسی جماعت وغیرہ کا ممبر: رکن (ج)
مُعْتَهَد: ذمہ دار: ٹھیکیدار۔	عنوان: پتہ۔	اعضاء۔
عید: جشن: تہوار: تقریب۔	عمدہ: کھیا: چودھری۔	عضویۃ: ممبری: رکنیت۔
عید فطری: سلور جوئی۔	عمود: اخبار کا کالم (ج) اعمدۃ۔	عطفہ: معطف: گلی: موڑ (ج) منعطفات۔
تعید: جشن منانا: عید کی مبارکباد دینا۔	عمید: سربراہ: پرنسپل: ریکٹر: کالج یا یونیورسٹی کا سربراہ (ج) عمداء۔	معطف: کوٹ (ج) معاطف۔
عود: عادیہ: معمول۔	اعتماد: ساکھ: منظوری: قرض۔	عاطفہ: جذبہ (ج) عواطف۔
	اعتماد مالی: فنڈ۔	عاطفیۃ: جذبہ باتیت۔
	(خطاب) اعتماد: ہنڈی: مالی رقبہ۔	عواطفی: جذباتی۔
	(اوراق) اعتماد: شناسی کا غذا: تعارفی (سرکاری) کاغذات۔	عطل: بیکاری۔
		عطلۃ: تعطیل: چھٹی (ج) غطل۔
		عطل تعطیل: بے کار کرنا: معطل کرنا: کام بند کرنا: تعطیل کرنا: ملتوی کرنا۔
		تعطیل: التوا: رکاوٹ: تعویق۔
		عطو: عطاء: نذر (ج) عطاءات۔

فتش تفتیشاً: تحقیق کرنا، تلاش لینا، جانچ پڑتال کرنا۔	جائے۔	(فوق) العادة: غیر معمولی۔
فتاش: جانچ کنندہ۔	غزل: کتابی سوت۔	عادی: معمولی، عام، رائج، متداول، قدرتی۔
مفتش: انسپٹر۔	مغزل: سوت کا تے کی مشین۔	عادیات: آثار قدیمہ۔
مفتش عام: انسپٹر جنرل۔	غزو: غزوة: پوش تملہ۔	عائدہ: فائدہ (ج) عوائد۔
مفتش اول: چیف انسپٹر۔	مغزی: خلاصہ میدان جنگ۔	عوالد: ٹیکس مال گزار۔
مفتش سب انسپٹر۔	غطو: غطاء: ڈھکن، غلاف، سرپوش (ج) اغطیہ۔	عیادۃ طیبة: مطب۔
فتن، فتنان، فتنان: فتنہ انگیز، سحر انگیز۔	غفر: غفیر: (وا) پہرہ دار۔	عود النقباب: پھول جھڑی۔
فتویٰ: استفتاء: استصواب، قانونی رائے، طلبی، ریفرینڈم۔	غفارة: علماء یہود کا لباس۔	عور: مستعار، مصنوعی، جھوٹا۔
فجر: آغاز شروع۔	غلف: غلف الكتاب وغیرہ: کورچر، حانا۔	عوق: عواقب: ریلوے بریک وین۔
فحص: معائنہ، جانچ، نمینٹ (ج) فحوص۔	غلاف: کورنا، کٹل، سرورق (ج) اغلفة۔	عول: عائلة: کنبہ، قبلی، گھرانہ (ج) عائلات۔
فاحص: آڈیٹر، حسابات ایگزامینر، جانچ کنندہ۔	غلل: استغلال: نفع اندوزی۔	عوم: عوامۃ: پھلتی کے کائنات کے ساتھ ڈور میں بندھی ہوئی لکڑی۔
فحل: استفحل الامر: سنگین ہو جانا۔	غلی: غلاية: ساور پانی گرم کرنے کا برتن۔	عون: اعانة: دراستی، تعلیمی، وظیفہ، اسکالرشپ۔
فحص عضوی: کاربن۔	مغلی الاعشاب: جوشاندہ۔	عیر: عایرة: جانچنا، ناپ تول کرنا، نمینٹ کرنا۔
فحص اعزاز: سر بلندی۔	غلسیرین: گلیرین۔	عیار: مقدار، ناپ (ج) عیارات۔
فحصی: اعزازی۔	غلیون التدخین: تمباکو یا سپ، حقہ۔	عیل ناری: شوٹ۔
فحصی: (۱) مٹی کے برتن بنانے والا۔	عمر: مغامرة: جاننازی۔	عیار: (۲) وزن یا ماٹ۔
فحصی: شاندار، بھڑکدار۔	غور: مغوار: (ج) مغاویو: جنگجو، لیڈر۔	عیار: کرین آلہ، جرنیل۔
فاحورة: مٹی برتن بنانے کا کارخانہ۔	غاز: گیس (ج) غازات۔	عیاش: چپاتی فروش۔
مفخرة: قابل فخر کارنامہ۔	(۲) پٹرول، مٹی کا تیل۔	معاش: التقاعد: پنشن۔
فخم: فخامة: شان و شوکت، عظمت، تعظیم	غوص: غوصة: غوطہ مارشی۔	عیل: عائلی: خاندانی، گھریلو۔
لقب جو مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے (فخامة)	مغاص: غوطہ گاہ۔	عیالہ: کفالت، پرورش۔
الرئیس) اور صاحب الفخامة: عزب	غیبہ: بے ہوش کرنا۔	عین: عینی: چشم دید، بینہ۔
مآب۔	(عقار) مغیب: بے ہوش کرنے والی دوا۔	عویونات: چشمہ، ٹیک۔
فدی: فدائی: جنگی رضا کار۔	غیر: غیار: تبادلہ۔	تعیین: نامزدگی، تقرر۔
فروج: تفروخ علی: سیر کرنا، تماشا دیکھنا۔	(قطع الغیار): قاتل، قہر زے۔	غرم: (ج) پودا۔
تفریجہ: جھروکے، روشن (ج) تفاریج۔	غیطانی: کھیت والا، باغ والا۔	غرمیستہ: ترسری پودا۔
فروخ و زوق: کاغذات کا ایک شیٹ۔	غیٹانی: کھیت والا، باغ والا۔	غرفة: سینڈل (ایک قسم کا جوتا)
فرد: پستول۔ ریلووار۔	غیٹانی: کھیت والا، باغ والا۔	غرفة: بالا خانہ، کمرہ، دیوان، چیمبر۔
فروز: فروزا: خطوط اور کاغذات کی چھٹائی کرنا۔	غیٹانی: کھیت والا، باغ والا۔	"مجاریة: ایوان تجارت۔
فروزہ: فطرح کی رانی۔	غیٹانی: کھیت والا، باغ والا۔	غرم: غروافہ: جرمانہ، آکرنا۔
فروز الحلیب: کریم نکلنے کی مشین۔	غیٹانی: کھیت والا، باغ والا۔	غروامۃ: جرمانہ، تاوان۔
الفریز: کارنس (ج) الفریز۔	غیٹانی: کھیت والا، باغ والا۔	غروامی: جرمانہ کا، عشقیہ۔
فروش تفریضاً: کپڑوں پر برش پھیرنا۔	غیٹانی: کھیت والا، باغ والا۔	غرو: غروا، وغوی تغویہ: سریش سے جوڑنا۔
فرشة: گدا۔	غیٹانی: کھیت والا، باغ والا۔	غرواء: سریش، ایسا مادہ جس سے کوئی چیز جوڑی
فرشة: برش۔	غیٹانی: کھیت والا، باغ والا۔	

فقد: تفقد: جائزہ لینا: عیادت کرنا۔	فرسی: فرسائی: فرسیسی۔	فروش: چیرائی: خادم۔
الفقید: متوفی: مرحوم۔	فسحة: قبطیل: تفریح (ج) فسح: درمیانی	مقر وشات: گھریلو سامان: فرنیچر۔
فقرة: پیرا گراف: جملہ (ج) فقرات۔	وفقر: غیبت۔	فوشیہ: بالوں کا کلب۔
فكرة: خیال: نظریہ۔	فَسْحَة: گھر کا صحن۔	فوص: فرصہ: موقع: چانس (ج) فوص۔
الفكریات: آئیڈیالوجی۔	فَسْقِيَة الماء: پانی کا فوارہ۔	فروض: فرضاً: سررحصاً: مقرر کرنا۔
مفكرة: یادداشت: میمورنڈم۔	فشوم: فاشیہ: فاش ازم: ایک انا لپین سیاسی نظریہ۔	فوط: (۱۰) مال فائدہ نفع۔
مفكرة جیب: نوٹ بک۔	فاشی: فاش ازم کا معتقد۔	مفوط: انتہا پسند: فنون: خرچ۔
مفكرة يومية: روزنامہ۔	فشكة: کارٹوس فشكات۔	فوع: شاخ: براؤچ: سیکشن۔
مفك: فٹکا: ہڈے الگ کرنا: بیچ وغیرہ کھولنا	فصد: مفصد: نشتر۔	فوع تصویفا: جہاز وغیرہ سے سامان اتارنا
مفكوزنا: جوڑیا ہڈی ملحدہ کرنا: ڈھیلا کرنا۔	فصل: فصلاً: خارج کرنا: نام کاٹنا۔	سائچہ میں ڈالنا۔
انفكاك: ڈھیلا ہونا: کھلنا: جوڑ ہلنا: جوڑ کھلنا۔	فصل تفصیلاً: کپڑا کا ٹٹا: حصے بخرے کرنا	تغزغ: خالی ہونا: سبکدوش ہونا۔
فكة نفود: ریز گاری: بیچ۔	تقسیم کرنا۔	فراغ: خالی جگہ: بیکاری۔
مفك: بیچ: کس چاہی۔	تفصیلة: کٹنگ۔	فراغات: خالی جگہیں۔
فكه: دلچسپ۔	فصل: تفریق: تقسیم: ڈرامہ کا منظر: اسکول ٹرم	فروق: امتیاز: بیلنس (حساب میں)
فكاهي: مزاحیہ۔	جماعت: فیصلہ۔	فـرقة: گروہ: گروپ: پارٹی: فوج کا ایک ڈویژن۔
فكھائی: میوہ: فروش۔	فصیلة: کتبہ: قسم۔	فـریق: جماعت: پارٹی: نیم: الٹینٹ (فوجی
فلح: فلاحہ: کاشتکاری: باغ کاری۔	فصلة: کاما: اوٹوکوس (')	مجدد)
فلحی: کاشتکاری: کاشت کارانہ۔	انفصالية: علیحدگی پسندی۔	بالفـریق: بالفـضیل: رشیل میں خورد و بالجملة:
فلذ: فولاد: فولاد۔	انفصاليون: علیحدگی پسند افراد۔	کی ضد۔
فلقلى: چٹ پٹا۔	مفصلة: قبضہ جس میں کواڈر گھومتا ہے۔	مغوق: نظماً: انفصال: سرسز اختلاف۔
فلم: فلم: ریل (ج) افلام۔	فضل تفصیلاً: پسند کرنا: ترجیح دینا۔	مغوق الطوق: چوراہا۔
فلكنة: ریلوے پٹری کا سلیپر۔	مفضل: محبوب: پسندیدہ: مقبول۔	مقرعة: دوہاک۔
فلم السیجارة: سگریٹ ہولڈر۔	فضیلة: علماء و مشائخ کے ناموں کے ساتھ بطور اعزاز استعمال ہوتا ہے۔ فضیلة الشیخ	مغرفعات: دوہاک خیز اشیاء: پٹاٹے وغیرہ۔
فلس: فلانس: قدیل: الٹین۔	صاحب الفضیلة۔	مروک: مروک: فراک: ایک قسم کا لباس۔
فلفواف: گراموفون۔	فطور: فطور: ناشتہ۔	مروم: مروما: تیرہ کرنا۔
قليلة: نلائیل: ایک قسم کا کپڑا۔	فطیر: خمیری روٹی: میک: بیسٹری (ج) فطانور۔	مروامة: تیرہ کرنے کی مشین۔
فن: آرٹ: کتب (ج) فنون۔	فطانور: ایک بیسٹری بنانے والا۔	مرومة المعطعة: پریس کا فرم۔
الفنون الجمیلة: فنون لطیفہ۔	فعل: افعال: جعل سازی۔	مرومان: حکم نامی فرمان۔
فنان: آرٹسٹ: فن کار: ماہر۔	انفعال: اشتعال: تاثر۔	مروملة: بڑیک۔
فنیك: (مع) فنیل: ایک کپڑا مارووا۔	مفعول: اثر: معمول۔	مروملجی: بڑیک لگانے والا۔
فوض: فوضہ: تفویضاً: اختیار دینا۔	مفتعل: جعلی: من گھڑت۔	فون: تیز زبان: پائی کی دکان: بیکری: ہسٹ وغیرہ
فواضہ: بات پیت کرنا۔	فاعلیة: تاثیر۔	کا کارخانہ: بجٹی (ج) الفون۔
فوضی: غیر منظم: منتشر۔	فقال: مؤثر۔	فوان: ہسٹ وغیرہ کا کاریگر۔
فوضویة: الا قانونیت: انارکزم۔	فاعلة: مزدور (ج) فَعْلَة۔	فوانجہ: انگریز جیسا بنانا: فرنگی بنانا۔
فوضوی: الا قانونیت پسند: انارکٹ۔		فوانجی: یورپین: انگریز۔
تفویض: اختیار: وارنٹ: پاور۔		فونسا: فرانس۔
مفاوضات: رسمی بات پیت۔		

علم الاقتصاد: علم معاشیات، وہ علم جس میں دولت کی پیداوار اور تقسیم سے بحث کی جائے۔	کراتا۔	مفوض: بنا اختیار۔
قصدیر: قلمی رائے، رائے کا لگانے کا مسالہ۔	مقدم: مقرر یا شاعر کا تعارف کرانے والا۔	مفوضیۃ: الیکشن سفارت خانہ سے کم درجہ۔
قصریۃ: گمراہ پیشاب رکھنے کا برتن۔	تقدم: ترقی کرنا۔	فوطۃ: تولیہ۔
مقصودۃ: سینمایا ہوٹل کا کیمین خلوت کا کروہ۔	قدم: فٹ (پیمائش میں)	فینون: فنون، محوڑ، آہنی۔
مقاصو۔	استقدمہ: طلب کرنا، حاضر کرنا۔	فید: فائدہ مال سود۔
قصة قصیرۃ: افسانہ۔	قدیمیۃ: ڈاکٹر وغیرہ کی فیس۔	فیسة الکبیرہ: الیکٹرک پلک۔
قصة: کنگ کا نئے کا طرز۔	تقدیمۃ: پیشکش، نذرانہ۔	فیسة: نوکن۔
قصی: اعصاب عن المنصب: عہدہ سے الگ کرنا۔	تقدیم: پیشکش، انٹروڈکشن، تعارف۔	فیسان: شغیانی، سیلاب، طوفان (ج)
قطب: اقتضاب، اقتضار، قضیب: ریلوے پڑوسی، قضبان۔	قذف: القنابل، قذفا: بمباری کرنا۔	فیضانات۔
مقضب: شاخ تراش، قینچی۔	قدیفة ناریۃ: پناہ، بیم، گول (ج) قذائف۔	فاض: النہر، شغیانی، آنا۔
قضض: اقتض مضجعه: نیند حرام کرنا۔	قروا: مقرا: پڑھنے کا اسٹینڈ۔	فانص: جاری، فالٹو۔
قضی: قضیۃ: مقدمہ، جج کا مسئلہ۔	قرب: مقرب: ٹیلی سکوپ۔	فانظ: سود، نفع۔
قضاء الی الحاکم: کسی کے خلاف مقدمہ دائر کرنا۔	قروح: اقتراح: تجویز (ج) اقترحات۔	فانظحی: سود خور۔
قضاء: فیصلہ، مقدمہ، قانون (ج) قضیۃ۔	مقترح: تجویز، تجویز کردہ۔	
دار القضاء: عدالت، کچہری۔	قرد: تقسیر: اسے کرنا، فیصلہ کرنا، بیان کرنا، گواہی دینا۔	قبریۃ: قبر کا کتبہ۔
قضائی: عدالت، مقدماتی۔	قرار: بیان شدہ، تجویز، قرارداد (ج) قرارداد۔	قبض: علیہ: گرفتار کرنا۔
قاضی: جج، مجسٹریٹ، جسٹس۔	قارۃ: جھکی، براعظم (ج) قازات۔	قبض: گرفتار، پکڑ، وصولیابی۔
قاضی التحقیق: افسر تحقیقات۔	تقریر: رپورٹ (ج) تقاریب۔	قبضۃ: بندل، قبضت۔
قطر: قطار: ریل گاڑی (ج) قطار۔	مقرر: صدر مقام، ہیڈ کوارٹر۔	قباض: وصول کنندہ۔
قطرۃ: انجن (ریلوے)	قرص: تکیہ، ٹیلیٹ، ٹیلیفون ڈائل۔	مقبوض: وصول شدہ۔
قطر: ملک، سوہ (ج) القطار۔	قرط: قرطانیۃ: ایشیائی۔	قبطان: کپتان۔
قطران: تارکول۔	قرقوشۃ: خشک، بکتر، بھری روٹی۔	قبع: بگل۔
قطع: اقتطاع: تجزواہ کا حصہ وضع کرنا۔	قصر مید: لال پتہ، اینٹ، کھرپل، فرش کا ٹائل، پلاسٹر۔	قبعة: ہیٹ، انگریزی ٹوپی۔
استقطع ارضاً: زمین الٹ کرنا۔	قوہذ: سرخ رنگ۔	قنباب: کھڑاؤں، ہیرک لگانے کا بندل۔
قطع: سائز، کنگ (ج) اقطاع۔	قون: قربینۃ: بیوی (ج) قربینات۔	قبل: قبول، منظور کرنا۔
قطع الجیب: پاکٹ سائز۔	قرونفلی اللون: کھنٹی رنگ کا۔	قابله: ملاقات کرنا۔
قطاع: کٹر، کٹنے کا اوزار۔	قرووی: دیہاتی۔	قبلی: جنوبی، جانب جنوب۔
قطاعی: خوردہ، ریشم۔	قروز: قزاق، بوتل۔	قبالة: ذمہ داری، معاہدہ۔
بالقطاعی: خوردہ میں، خوردہ میں۔	قسم: شعبہ (ج) اقسام۔	قبالة: واپہ گری۔
(تاجر) القطاعی: خوردہ فروش۔	قسیمۃ: رسید کا شی (ج) قسام۔	قبول: منظور، تسلیم، ورضا۔
	قسط: قسطا، بالائی، امارتا، چھیلنا۔	قابل: منظور کنندہ، آئندہ۔
	قسطۃ: بالائی۔	قابله: واپہ دانت۔
	مقسط: حرف، پھینے کا چاقو۔	اقبال: توجہ، رجوع، مانگ۔
	قصد: اقتصاد: لکھائیت، شعاری مال کو خاص تدبیر سے خرچ کرنا۔	قدح: قداحۃ: گھریٹ، انٹر۔
		قدر: تقدیر: اندازہ، تخمینہ، قدر، روانی۔
		مقدورۃ: سکت، ہمت، طاقت۔
		قدم: تقدیم، پیش کرنا، ترقی دینا، تعارف۔

تقویم البلدان: جتزی۔	اقتسب ب.....: قائل ہو جانا۔	اقتطاعہ: جاگیر۔
تقویم السنۃ: کیلنڈر (ج) تقاویم۔	قن: مرثی خانہ، قیس کا کف (ج) اقدان۔	اقتطاعی: جاگیردار زمیندار۔
شَقَوَمَات: قیمتی اشیاء، بنیادی ضروریات، بنیادی اجزاء۔	قنینۃ: پوتل، شیشی۔	تقاطیع الوجہ: چہرہ کے خدو خال۔
مقاوۃ: مقابلہ۔	قنن: قانون الاحوال الشخصیۃ: پرنسپل اء۔	مقاطعة: انتظامی علاقہ صوبہ (ج) مقاطعات۔
قومیسر: (مع) کشتہ۔	قانون مدنی: سول اء۔	قطف: قطیفہ: بھل، بھل جیسا کپڑا۔
قومیسون: تحقیقاتی کمیشن۔	قنو: قنات: نہری بڑی نالی (ج) قنوات۔	مقنطقات: منتخبات، تراشے۔
قومندان: کماندار، کمانڈر۔	قہوی: جبری، غیر ارادی، مجبور کن۔	قطل: قطیلہ: تولیہ۔
قوۃ: طاقت، فورس۔	قہرمان: میرٹھی، نگران۔	قطنی: روئی کا سوتی۔
قوۃ بحریۃ: بری فوج۔	قہرمانۃ: مرہیہ۔	مقطنہ: روئی کا کھیت۔
قوۃ زمینی فوج۔	قہوۃ: کافی۔	قعد: تقاعد، عن ریٹائر ہونا۔
قوۃ جویۃ: ایئر فورس، ہوائی فوج۔	مقہنی: کافی ہاؤس (ج) مقاہی۔	قاعدۃ: ملک کا صدر مقام، جنگلی اڈا (ج) قواعد۔
تقویۃ: ہمت افزائی، پشت پناہی۔	قت: مقبت: غذا بخش۔	مقعد: سیٹ، بیچ، صوفہ۔
مقوی (ورق): کارڈ بورڈ۔	قید: قیود: کنٹرول۔	متقاعد: منتسخر، ریٹائرڈ۔
قیراط: (ج) قواریط۔	قید: قیود: کنٹرول قائم کر دینا۔	قلزم: بچا کر۔
قیاس: قیاس، پیمانہ ناپ۔	قیادۃ: کمان، رہنمائی، کمانڈری۔	قلل: اقلہ الی لے جانا، منتقل کرنا۔
رقم قیاسی: ریکارڈ، کسی کام کا آخری درجہ۔	القیادۃ العلیا: ہائی کمان۔	استقلال: خود مختاری، آزادی۔
ضرب رقما قیاسیاً: ریکارڈ قائم کرنا۔	قواد: دلال۔	مستقل: خود مختار۔
قیاس: پیمائش کنندہ۔	قائد: راہنما، لیڈر، کمانڈر، گانڈ (ج) قادی۔	قلم: دفتر، محکمہ، ڈیپارٹمنٹ، شعبہ۔
مقیاس الحوارۃ: تھرما میٹر۔	مقود: موٹر کا اسٹیرنگ (ج) مقاود۔	قلم الادارۃ: ہیڈ آفس۔
قایس بین الشیئین: موازنہ کرنا۔	قور: قار، تارکول۔	قلم اردواز: سلیٹ پیسل۔
قیل: استقال من الخلعۃ: مستعفی ہونا، سبکدوش ہونا۔	قوۃ تقویۃ: تارکول مانا۔	قلم رصاص: پیسل۔
	قورۃ: تور، گوشت کا سالن۔	قلم حبر: نوٹن پن۔
	قوس نصر: بحراب فتح، وہ دروازہ جو کسی جشن وغیرہ میں لگایا جاتا ہے۔	قلم الاستعلامات: انکوائری آفس۔
	قوش: قایش: استرا تیز کرنے کا چہرہ۔	اقلیم: صوبہ، ملک، ضلع، علاقہ (ج) اقلیم۔
	قوع: قاعۃ: بال کمرہ (ج) قاعات۔	اقلیمی: صوبائی، صوبی۔
	قول: قاوۃ، مقاوۃ: معاملہ کرنا، سودا کرنا، ٹھیکہ لینا۔	مقلمۃ: صوبائی، صوبی۔
	مقاوۃ: ٹھیکہ دار۔	مقلمۃ: قلمدان، پیسل تراش۔
	مقاوۃ: کسی کام کا ٹھیکہ۔	قلی: مقلی، مقلاۃ: فراننگ پن۔
	قوم: قائم مقام: ایک فوجی عہدہ، لیفٹیننٹ کولونیل۔	قمس: قاموس: ڈکشنری (ج) قوامیس۔
	قائمة: فہرست، لسٹ، نقشہ (ج) قوائم۔	قمش: قماش: کپڑا (ج) اقمشۃ۔
	قائمة الاسعار: نرخ نامہ۔	قنطر: البناء: ڈاٹ لگانا۔
	قائمة الحساب: گوشوارہ۔	قنطرة: ڈاٹ کا پل، ڈاٹ۔
	قیم: نگران، پیش قیمت۔	قناطر البناء: نصف دائرہ نما ڈائیس۔
		قنق: قناع التکبر: مصنوعی چہرہ۔
		القعد ب.....: مطمئن کرنا، قائل کرنا۔
		مقنع: تشفی بخش۔

ک

کانون الاول: دسمبر کا مہینہ۔
کانون الثانی: جنوری کا مہینہ۔
کبت کجوت: اوور کوٹ، رکشایا، تاکلے کی چستری۔
کبح: قابو۔
کبح العواطف: جذبات پر قابو پانا۔
کبر: مکبر الصوت: الاڈا، اسپیکر۔
کبریت: گندھک، ناچس۔
کبس: کبسا: ٹھیکہ میں کسنا، داؤڈا، نا، چھاپہ مارنا۔
کبس: بجلی کا ٹیوڑ۔
کبیس: بیکس: پرپس، ٹھیکہ ڈوبانے کی مشین۔
کبشۃ الثیاب: بک۔

کتاب: مضمون لکھنا، تصنیف کرنا۔	کذبہ ابریل: اپریل قول۔	کلمۃ مضمون: تقریر۔
اکتب فی: چندہ دینا، اخبار یا رسالہ کا خریدار بننا۔	کوبون: کوئلہ جیسا سیاہ مادہ۔	کلیسرین: گلیسرین۔
کاتبہ: مراسلت کرنا۔	ورق کوبون: کاربن پیپر۔	کماج: کماحہ الفطار: بریک۔
کتاب: خط پیغام نامہ۔	کوتون: (مخ) کارڈ بورڈ۔	کمساری: کنڈیکٹر یوے کارڈ۔
کتابی: تحریری۔	کوس: کوسٹ: پمفلٹ، کاپی، کراسہ۔	کمش: کماشہ: برقی کارنبور۔
کتاب: مدرسہ، مکتب۔	کسو: کشازہ: سروٹا۔	کصہ: ایپ شیڈ۔
کتاب: تحریر، لکھائی، مضمون نگاری، انشاء پر دازی۔	کاسور: پتھر توڑنے کا تھوڑا۔	کمنجہ: سارنگی۔
کتابی: کتب فروش۔	ککشان: انگلستان۔	کندی: کنیڈا کاربن والا۔
کتیب: پمفلٹ (ج) کتبیات۔	کشکف: فہرست، نقشہ (ج) کشوف۔	کون: کانون: چولہا، اسٹوو۔
کتیبہ: فوج کا ایک ڈویژن (ج) کتاب۔	اکشاف: نئی دریافت، ایجاد۔	کانون الاول: ماہ دسمبر۔
کتاب: محرر، کلرک (ج) کتبہ۔	کشاف: اسکاؤٹ، وہ سپاہی جو دشمن کے احوال معلوم کرنے کے لئے بھیجا جائے۔	کانون الثانی: جنوری۔
(۲) مضمون نگار، مؤلف، نقل نویس (ج) کتاب۔	کشافہ: وہ جماعت جو خدمت خلق کیلئے تیار کی جائے۔	کھربہ: برقی تار، کسی جگہ بجلی پہنچانا۔
کاتب العقود: رجسٹرار۔	کشافہ: جماعت اسکاؤٹ کا کام، تجزیہ جاسوسی۔	کھربا: بجلی، برقی۔
کاتب علمی الالہ: ٹائپسٹ۔	کشک: نگڑی کی کوٹھڑی، کیمین۔	مکھرب: برقی یا ہوا۔
مکتاب: ٹائپ رائٹر۔	کشک التلیفون: کال بکس۔	کوبوی: پل۔
مکتب: لکھنے کی میز، ڈیسک، دفتر (ج) مکاتب۔	کشک الدبذبان: سنتری بکس، سپرہ دار کے کچرا ہونے کا کیمین۔	کوٹ: سلیپر (ج) اکواٹ۔
مکتب التلیفون: تار گھر۔	کشکول: اخبار یا کتاب کے تراشوں کا مرتع۔	کوڈہ: سوپ، ضلع، چھوٹا قصبہ۔
مکتب الاستعلامات: دفتر معلومات، انکوائری آفس۔	کظم: کظمیہ: تھرماس۔	کوزنگ: ڈنڈی دار پیالہ۔
مکتبہ: لائبریری، کتب خانہ۔	کعب: جوتے کی ایڑی (ج) اکعباب: (۲) کتاب کا پشت۔	کوس: بڑھی کا پیالہ۔
مکتبہ: مراسلہ نگار، نامہ نگار۔	کعبک: کیک۔	کوفیہ: سر کو لپٹنے کا رومال۔
مکتبہ: نامہ نگاری۔	کفوف: ابل لائق (ج) اکفواء۔	کوکیہ: لوگوں کی نگڑی، جماعت۔
کشمینہ: تاش کے پتے۔	کفواء: اہمیت لیاقت۔	کون و کبان: وجود، ہستی۔
کٹکوت: (۱) مرثی کے پتے (ج) کٹکوت۔	کفج: کمافجہ: سامنا کرنا، مقابلہ کرنا، جنگ کرنا۔	کونی: عالمی، کائناتی۔
کٹلہ: دھڑا، ہڈیاں، مختلف ممالک کا متحدہ گروہ (ج) کٹل۔	کفج: جدوجہد، لڑائی، مقابلہ۔	کوی: کٹیا، استری کرنا۔
کٹکل: دھڑا بندی۔	کفوف: چھوٹی ہستی۔	مکھوی: استری کیا ہوا۔
کٹلہ امویکیہ: امریکن ہلاک۔	کفوف: بھیک۔	کئیف البناء تکھیفا: ایئر کنڈیشن بنانا۔
کٹلہ: "آسیویہ: ایشیائی ہلاک۔	کفل: کفالہ: ضامن ہونا۔	مکھیف بالہواء: ایئر کنڈیشن۔
کٹلہ: "شیو عیہ: کمیونٹ ہلاک۔	کفالہ: ذمہ داری، ضمانت۔	کیلو: کیلوگرام، ایک ہزار گرام۔
کٹم: کٹام البطن: قبض۔	بکفالہ: ضمانت پر۔	کینیا: کونین، بخار کی دوا۔
کٹوم البطن: پیٹ کا مریض۔	کلبان: زنبور، فن جراحی کی چمچی۔	کینیا: کونین، بخار کی دوا۔
کٹن: کٹن، سوت، ایک قسم کا ریشہ جس سے مضبوط کپڑا تیار کیا جاتا ہے۔	کلابہ: دانت نکالنے کا زنبور۔	کینیا: کونین، بخار کی دوا۔
(سیج) الکتان: سوتی کپڑا۔	کلابیہ: کارج۔ (ج) کلابیات۔	کینیا: کونین، بخار کی دوا۔
	کلسیم: کلسیم۔	کینیا: کونین، بخار کی دوا۔

لجنة تابعة: سب میٹھی۔	ملہنی: تماشا گھر، قہقہہ، سیمٹھا (ج) ملاحسی۔
لاحظ: لاحظہ: جاننے کرنا، نگہ رانی کرنا۔	لوقازینہ: لائری۔
ملاحظ: نگہ رانی، سپرٹنڈنٹ۔	لوح الارض تلویحاً: زمین پر تختے بچھانا۔
ملاحظہ: نوٹ رائے، نگہ رانی۔	لوحۃ: تختی (ج) لوحات۔
لحق: التحق بالمدرسة: داخل ہونا (التحق	لاسحة: پروگرام پر ایکٹس سرکاری قانون
بہ) التحق ہونا۔	(ج) لوانح۔
ملحق: اضافی، ضمیر (ج) ملحقات: (۲)	ملوؤحۃ: شکل (ج) ملوؤحات۔
شارات خانہ کا ایک رکن اٹاچی۔	لوؤز التمر تلویحاً: گجور میں بادام بھرتا۔
(امتحان) ملحق: کاپی سنٹری امتحان۔	لوؤزۃ الحلق: نوسل غدود۔
لوم التوام: پابندی و مدارائی ٹھیکہ (ج) التوامات۔	لو کاندہ: (مع) ہوٹل۔
ملزومۃ: ٹھیکہ۔	لوب: بیچ واریکل اسپرنگ (ج) لوالب۔
ملازم اول: لیفٹیننٹ۔	لواء: فوج کا بریگیڈ۔
ملازم ثان: سیکنڈ لیفٹیننٹ۔	اللواء: میجر جنرل فوجی عہدہ۔
ملتزم: ٹھیکہ دار، اجارہ دار۔	امبر اللواء: بریگیڈیئر جنرل۔
ملزومیۃ: مدارائی۔	لیلیٰ: شیندرات۔
ملصق: متصل، قریب۔	
ملصوق: پائینر۔	
ملطس: ملطاس، پتھر توڑنے کی تھوڑی۔	
ملعب: ملعب، کھیل کا میدان، تماشا گاہ۔	
ملعب الخیل: سرکس۔	
ملغو: (ن) قانون کا منسوخ ہو جانا۔	
المغاء: منسوخ کرنا۔	
ملفت: لغتاً، توجہ دلانا۔	
ملفتۃ: توجہ ایک نگاہ۔	
ملفع: نفع، مظہر، سر کو پینے کا کپڑا۔	
ملفع: لغتاً، تیغ، سگریٹ۔	
ملفیغۃ: تیغ، سگریٹ (ج) لغانف۔	
ملفغ: ریچ پینے کا کاغذ۔	
ملفغۃ: اوراق، قائل (ج) ملفغات۔	
ملفح: تلفیحاً، یکا، لگانا۔	
ملفاح: یکا، واجو بدن میں بچھائی جائے	
ملقط: ملقط، چمچی۔	
لمیۃ: لیمپ۔	
لمیب: التیاب، سوزش ورم۔	
التمیاب الرفۃ: نمونہ۔	
التمیاب الزائدة الدودیۃ: اپڈی سائنس ایک	
مرض جس میں معای زائدہ میں ورم ہو جاتی ہے۔	
لیجو: تفریح، کھیل، تماشا۔	
	مؤنۃ: خوراک، روزینہ (ج) منون۔
	تموین: خوراک سپلائی کرنا۔
	جوئی: سوسال۔
	مأرکۃ: خاص نشان مارکر۔
	متر: میڑتا پنے کا گز وغیرہ۔
	متعة: دلچسپی، سامان دلچسپی (ج) متع۔
	مثل: مثل، تمثیلاً، نمائندگی کرنا، ایکٹنگ کرنا۔
	مُمثل: نمائندہ، ایکٹر۔
	مثل اعلیٰ: شاندار روایت (ج) المثل العلیا۔
	تمثال: مجسمہ (ج) تمثالیل۔
	تمثیل: نمائندگی، ایکٹنگ۔
	تمثیلیۃ: ڈراما (ج) تمثیلیات۔
	تمثیلی: ڈرامائی۔
	مرور: مرور، ٹریک (حرکت المرور)
	تمویر: سامان پاس کرنا، گزرنے کی اجازت دینا۔
	مرس: مازس العمل، بطور پیشہ کوئی کام کرنا،
	پریکٹس کرنا۔
	مرض: مُمرض، بیمار دار۔
	ممرضۃ: نرس (ج) ممرضات۔
	مسح الارض: زمین کی پیمائش کرنا۔
	الحذاء: جوڑے پر پالش کرنا۔
	مستباح: زمین کا سروے کرنے والا (۲)



مہبطہ: پیراشوت ہوائی چھتری۔
 ہتاف: نعرہ لگانا۔
 ہتاف: نعرہ (ج) ہتافات۔
 ہاتف: ٹیلی فون۔
 ہجوئی: ضد وفاقی: اقدامی۔
 ہڈا تھیلہ: پڑسکون بنانا: رقم کرنا۔
 ہڈنہ: صلح: جنگ بندی۔
 ہڑب تھیریا: اسٹینک کرنا: چور بازی کرنا۔
 ہمنو: اشیاء کی خرید و فروخت کرنا۔
 ہمشہ: حوصلہ (ج) ہضم۔
 ہمشہ: ہشن: مفوضہ: یونی۔
 ہمشہ: ضروری سامان: میٹرل۔
 ہمشہ: انجینئر: فن تعمیر۔
 ہمشہ: انجینئر۔
 ہواہیہ: خاص شوق۔
 ہینہ: بورڈ: انجمن (ج) ہینت۔
 ہینہ الامم المتحدہ: انجمن اقوام متحدہ۔
 ہیر: واپور: ریو: انجمن اسٹو۔
 ہجینہ: ایک وقت کا کھانا: خوراک۔
 ہجینہ: توجیہ: راہنمائی کرنا: اصلاح کرنا۔
 ہجینی: اصلاح۔
 ہجینہ: اکائی یونٹ (ج) وحدت۔
 ہجینہ: مستودع: گودام۔
 ہجینہ: استيراد: درآمد کرنا۔
 ہجینہ: آمدنی: پیداوار۔
 ہجینہ: واردات: درآمدات۔
 ہجینہ: ذریعہ آمدنی (ج) موارد۔
 ہجینہ: سامان مہیا کرنے والا۔
 ہجینہ: ایپورٹر: درآمد کنندہ۔
 ہجینہ: ورکشاپ۔
 ہجینہ: ورق النقد: نوٹ۔
 ہجینہ: وفاق: کانڈساز: کانڈ فروش: کتب فروش۔
 ہجینہ: وفاق: کانڈ فروش: کانڈ سازی: کتب فروشی۔
 ہجینہ: وسیط: ثالث: شیخ (وساطت): ثالثی۔
 ہجینہ: وصف: حلیہ: کیفیت: احوال۔
 ہجینہ: وصف: نسخہ (ج) وصفات۔
 ہجینہ: مستوصف: مطب۔
 ہجینہ: وصل: ایصال: وصول: رسید۔
 ہجینہ: وکالہ: ایجنسی (ویکل): ایجنٹ۔

☆☆☆☆☆

نضح: نضاحہ: آب پاش۔
 نضد: منضدہ: تپائی کا وائٹر۔
 نطق: ناطق: ترجمان۔
 ناطق: رسمی: سرکاری ترجمان۔
 منطقہ: علاقہ: صوبہ: ضلع (ج) مناطق۔
 منطقی: علاقائی۔
 نظر: نظارہ: چشمہ: تماش بین۔
 نظارہ: انتظام: نظامت۔
 ناظر: ڈائریکٹر: منیجر: ناظم (ج) نظار۔
 المناظرہ: انجمن: ماسٹر۔
 مندرسہ: ہمدیہ: ماسٹر۔
 منظر: دور بین۔
 نقد: نفوذ: اثر: رسوخ۔
 نافذہ: کنزروی (ج) کوالڈ۔
 نغظ: پھول۔
 نقب: نقیب: انفر: صدر: زمین۔
 نقد: نقدیہ: کیش: نقدروپیہ۔
 (ورق) النقد: نوٹ۔
 نقض: مناقشہ: مباحثہ: علمی گفتگو۔
 نقص: مناقصہ: ٹھیکہ: جو دوسرے کے مقابلہ میں کم قیمت پر لیا جائے۔
 نقطہ: آسٹم: پوزیشن: نقطہ۔
 نقل: ٹرانسپورٹ۔
 نسف: اسٹریچر: دوں اور زخمیوں بیماریوں کو اٹھانے کی چارپائی۔
 ناقلة: بار بردار: جہاز (ج) ناقلات۔
 نصر: تمجید: انعام: ڈانٹا۔
 نشارة: نمبرنگ: مشین۔
 نمس: ناموسیہ: مجھردان۔
 نمنسا: ملک آسٹریلیا۔
 نمنلیہ: چالیڈ: الماری۔
 نموذج: نمونہ (ج) نماذج۔
 نوبہ: باری: نمبر۔
 نیابی: پارلیمنٹری۔
 نائب: ڈپٹی: نمائندہ: عوام (ج) نواب۔
 نوو: مناوہ: جنگی مشق: داؤں: شیخ۔
 نیسان: ماہ: اپریل۔

﴿ ۵۵ ﴾

ہبط: مہبط: ایئر فیلڈ۔

نص: نتاج: پیداوار: نملہ۔
 منوعات: مصنوعات۔
 نجمة: سیمانیہ: قلم اشار۔
 منجم: کان سرچشہ (ج) مناجم۔
 نحت: منحت: بسوی۔
 نجات: سنگ: تراش۔
 نحو: نضاحہ: عن: ملازمت یا خدمت سے برطرف کر دینا۔
 نخب: انتخاب کرنا۔
 ناخب: انتخاب کنندہ: ووٹر۔
 ندب: مندوب: نمائندہ: ڈپلیکیٹ۔
 مندوب: سام: ہائی کمشنر۔
 ندل: مند: عمل: حشرات۔
 ندوہ: کلب (ج) ندوات۔
 نزوح: عن الوطن: نزوح: جا بے گھر ہونا۔
 نازحون: تارکین وطن۔
 نزل: ہوٹل: سرائے۔
 تنازل: عن: دست بردار ہونا۔
 نزهة: تفریح۔
 منتزه: پارک: تفریح گاہ۔
 نسبة: تناسب: اوسط۔
 مناسیہ: سلسلہ: سبب: موقع۔
 نسف: نسفا: ڈانٹا: میٹ سے اڑانا۔
 نساہة: تار پید: روشنی۔
 نشأة: ساخت: تعمیر: بنیاد: زندگی۔
 نشاء: نسل۔
 منشی: انشا: پرواز۔
 منشآت: تنصیبات۔
 نشور: اشاعت۔
 نضاہ: نوشادور۔
 نشرة: اعلان: اعلامیہ: سرکلر: پمفلٹ (ج) نشرات۔
 منشور: سرکلر: حتمی حکم۔
 نشط: نشاط: سرگرمی۔
 نشف: نشافہ: منشفہ: تولیہ۔
 نشاف: جاذب: باجنگ: پھیر۔
 نصب: نصاب: قانونی: گورنر۔
 نص: منضدہ: شیخ: تقریر: کاپلیٹ فارم۔

جمع الطبع عبقريتها فكانت الجمال

الشافعي

وكان احسنه واشرفه ما حل في الهيكل الادبي وجاور العقل الشريف والنفس اللطيفة والحياء الشائمة

النسخي

فاجمال البشري سيد اجمال كله

الساري

لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الخاسرين ولا اله الا انت سبحانك اني كنت من الخاسرين

الريحاني

ولا يسع الزهر وغريبه في سباب الربيع ماله منه بساسة وطيب

الرقصي

وليس الجان ثمرة العيون ولا يبرق النور ولا يصفى القدر ولا اله الا انت سبحانك اني كنت من الخاسرين

الديواني

لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الخاسرين ولا اله الا انت سبحانك اني كنت من الخاسرين

الديواني جميل

ليكن هوذا دوعته ويجعلها الهكرا وفتنة الناس


الكلبي

فلا تفرحوا به

بيروت ١٥٤١ هـ / ١٩٥٤ م









١- الهيكل العظمي


- ١ العظم الجداري
- ٢ العظم الجبهي
- ٣ العظم الضفدعي
- ٤ العظم الوجني
- ٥ العظم الأنفي
- ٦ الفك السفلي
- ٧ الأسنان العلوية
- ٨ الأسنان السفلية
- ٩ الفك السفلي
- ١٠ الفقرات العنقية
- ١١ القرقرة
- ١٢ عظم اللوز
- ١٣ القص
- ١٤ التسطد
- ١٥ الأضلاع
- ١٦ الأضلاع السالبة الكاذبة
- ١٧ الفقرات القطنية
- ١٨ القرقرة
- ١٩ الكتفيرة
- ٢٠ الكتفيرة
- ٢١ الزند
- ٢٢ العضص
- ٢٣ راحة اليد
- ٢٤ مخطط اليد
- ٢٥ الشلاخيات
- ٢٦ عظم الفخذ
- ٢٧ الرضفة او الداغصة
- ٢٨ قضبة الساق او الطحروب
- ٢٩ العظمية
- ٣٠ راحة القدم
- ٣١ مخطط القدم
- ٣٢ شلاخيات القدم



- ١ العظمة
 - ٢ الكتفيرة
 - ٣ الزند
 - ١ العظم الجداري
 - ٢ العظم الجبهي
 - ٣ العظم الضفدعي
 - ٤ العظم الوجني
 - ٥ العظم الأنفي
 - ٦ الفك العلوي
 - ٧ الفك السفلي
 - ١ الشفة
 - ٢ اللسان
 - ٣ اللوزتان
 - ٤ الأسنان
- ١- الجمجمة
٢- السمود البقري او الضنب
٣- الخرقنة
٤- مفصل المرفق
٥- الصليب
- ٢- قبايل الرأس
- ٢- الفم




١ منطاد هيدروجيني • ٢ منطاد مولفراغنه • ٣ منطاد • ٤ منطاد عقيد • ٥ منطاد • ٦ منطاد مسور • ٧ منطاد ذو
 بطانة هابطة • ٨ منطاد زائين • ٩ منطاد انصار • ١٠ برج المراقبة • ١١ منارة • ١٢ منبرج • ١٣ منطاد



١. نرس • ٢. خنجر • ٣. خنجر • ٤. نرس • ٥. فأس • ٦. صفيحة • ٧. دولاب • ٨. فوس وند • ٩. فوس فولادي • ١٠. فوس طيار • ١١. سيف • ١٢. بارودة • ١٣. بندقية • ١٤. خنجر • ١٥. سعة • ١٦. فأس • ١٧. فراد أوتومالكي • ١٨. فراد • ١٩. حربة • ٢٠. أسلح • ٢١. قشة يدوية • ٢٢. قشة الطائرات • ٢٣. بندقية رشاشة • ٢٤. مدف • ٢٥. مدف • ٢٦. مدف رشاش • ٢٧. مدف • ٢٨. مدف • ٢٩. دبابة صليحة • ٣٠. دبابة قاطرة


الطيران قديما وحديثا



طائرة اوتو ليليانال (1896)




طائرة في القرن 10



طائرة كلينج أدير (1909)




طائرة ويلر رايت (1908)



طائرة ليوره وأوليفيه (1925)




من طائرات (1915)




طائرة كليبر للركاب




قاذبة القنابل




هليكوبتر




قاذبة القنابل




ترمومتر كهجوي



راديو تلسكوب



تلسكوب



جهاز تلفراف لاقط



درجه القليان

درجه الجهر

حرارة الزئبق

ترمومتر زئبقي



ترمومتر زئبقي



تلفون




تلفون يستعمل في السفن




جهاز تلفراف مرسيل




تلفزيون




ثور - ثور



جناح وصيحات : 1 ذوات الجناحين - 2 مستقيبات الأجنحة - 3 مضادة الأجنحة - 4 نصفية الأجنحة



مختلف الأجهزة عند الأسان والحيوان



محراب مسجد الأندلس في فاس

جامع قرطبة في الأندلس

مسبل في مراكش

مسجد قابشاي بقرافة المهالك (القاهرة)

حنايا قوطية


الجامع الكبير في فاس الجديد


الحصراء في غرناطة

مدخل قصر بيت الذهب

مسجد الملك في أمصهان







أدوات الرصد

فالنخرفة



زبط



ميشكاة او مصباح



كُرْبَا او مسرجة



ميسرة



ايرين



ديوس



عقد او قلادة



أعتراز



ايريق



اناء



قنة



قورق



عقد



ديوس



شاك حرة



كوب




قصمة



سحر



عقد



سندوق



اسوار



عقد او قلادة



ايرين



شمعدان



ايرين



ايرين



مطرقة باب



ساعة دقائق




ساعة مائتة



ساعة مائية

أدوات التوقيت



ساعة فلكية



ساعة مائية



ساعة رمليّة



ساعة طاولة



ساعة يد




مقياس الرطوبة او يرطاب




مقياس



ميزان الجو او مضغط




مقياس الحرارة




مقياس الريح




مقياس المطر



برمجة الضغط



تربسي



دائرة الهواء

١- الانسان

١ الشعر
٢ الهامة
٣ الحنوة
٤ الضفة
٥ العين
٦ الأنف
٧ الرجة
٨ الفم
٩ الفم
١٠ اللسان
١١ اللسان
١٢ الرجة
١٣ جوزة التلق
او العرقدة

٢- الانسان

١ قبة الرأس
٢ الاذن
٣ جند الكتف
٤ القفا
٥ القفدال
٦ الإنط
٧ الظهر
٨ المرفق
٩ الحفر
١٠ الزوك

١١ الحنصر
١٢ العنصر
١٣ النصر
١٤ إخصر القدم
١٥ الأبيض
١٦ أصابع الرجل
١٧ الحساة او البطة
١٨ الزند
١٩ الكتف والكاحل
٢٠ القب

٢٠ الكتاوة
٢١ السبابة
٢٢ القفد
٢٣ الوسطى
٢٤ الزكية
٢٥ الساق
٢٦ القدم

١٧ الكتف او
١٨ العاتق
١٩ الصدر
٢٠ التمدد
٢١ التمدد
٢٢ البطن
٢٣ اليد

١ الوريد الأوجف
٢ الشريان
٣ الأذنين
٤ الأذن
٥ الشريان
٦ الشريان الأيسر
٧ الشريان الأيمن
٨ الشريان الأيسر
٩ الشريان الأيمن
١٠ الشريان الأيسر
١١ الشريان الأيمن
١٢ الشريان الأيسر
١٣ الشريان الأيمن
١٤ الشريان الأيسر

٣- القلب

١ الحفم الأعلى
٢ القربنة
٣ الحدة او
٤ إنسان العين
٥ الحفم الأسفل
٦ العين

٤- العين


٥- الرئة

١ قضبة الرئة
٢ الغلقة العليا
٣ الغلقة السفلى
٤ الرئة اليسرى


٦- جهاز الهضم

١ المريء
٢ الكبد
٣ المرارة
٤ الاثني عشرى
٥ الكبد
٦ المعدة
٧ بنكرياس او لوزة المعدة
٨ المي القاسط الصاعد
٩ المي القاسط الهابط
١٠ المي الدقيق
١١ المي الأعور
١٢ المي العريض النازل
١٣ الزائدة الدودية
١٤ المستقيم

صناعات




میزان او طیار



شان

شان




آلة تصوير



هاتف اوتوماتيكي



هاتف او تلفون



مديع البرقيات



مديع



هوق مكبر للصوت



شك او بوصلة




مجهز




باعة الاشباح او آلة سينما




أسطوانة



مرايح او راديو



حالك او هيدروغراف



میزان الحرارة

